




فروز اللغات اُردو

نیا ایڈیشن

جدید ترتیب اور اضافوں کے ساتھ

ایک لاکھ پچیس ہزار قدیم و جدید الفاظ، مرکبات، محاورات، ضرب الامثال اور علمی، ادبی، فنی اصطلاحات



فیروز اللغات

اُردو جامع

نیا ڈیشن

نئی ترتیب اور جدید اضافوں کے ساتھ
سوالا لکھ سے زائد قدیم و مروجہ الفاظ، مرکبات، مشتقات، محاورات،
ضرب الامثال نیز جدید علمی، ادبی اور فنی اصطلاحات

مرتبہ
الحاج مولوی فیروز الدین رحمتیہ



فیروز سنٹر

لاہور۔ راولپنڈی۔ کراچی

مجلد: 3 02278 0 969 978

بار اول _____ ۲۰۱۰ء

فیروز سنز پرائیویٹ لمیٹڈ

ہیڈ آفس و شوروم: 60- شاہراہ قائد اعظم، لاہور۔

راولپنڈی آفس: 277- پشاور روڈ، راولپنڈی۔

کراچی آفس: فرسٹ فلور، مہران ہائٹس، مین کلشن روڈ، کراچی۔

Moulvi Feroz ud Din (Late)

مولوی فیروز الدین مرحوم

Feroz ul Lughat Jamay

فیروز اللغات اردو جامع

© 2010 جملہ حقوق فیروز سنز پرائیویٹ لمیٹڈ محفوظ ہیں۔

اس کتاب کا کوئی حصہ نقل کرنے یا کسی بھی طریقے سے محفوظ کرنے،
فوٹو کاپی کرنے یا ترسیل کرنے کی اجازت نہیں۔

مطبوعہ فیروز سنز پرائیویٹ لمیٹڈ لاہور۔ باہتمام ظہیر سلام پرنٹرز و پبلشر

Printed by Ferozsons (Pvt.) Ltd. Lahore. Pakistan

email:support@ferozsons.com.pk

www.ferozsons.com.pk

پیش لفظ

فیروز اللغات اردو جامع کے اس نئے ایڈیشن میں تقریباً پچیس ہزار جدید الفاظ اور اصطلاحات کا اضافہ کیا گیا ہے۔ جس کے باعث مناسبت بھی بڑھ گئی ہے۔ لغت کی نظر ثانی میں اس امر کو ملحوظ رکھا گیا ہے کہ قدیم و جدید تمام مروجہ الفاظ آجائیں۔

اس کی ترتیب و تدوین میں مندرجہ ذیل امور کو پیش نظر رکھا گیا ہے:

○ حتی الامکان اردو زبان کے تمام متداول الفاظ، محاورات، ضرب الامثال اور جدید علمی، ادبی، سائنسی اور تکنیکی اصطلاحات درج کر دی گئی ہیں۔

○ صرف وہ متروک الفاظ و محاورات شامل کیے گئے ہیں جن کا اگرچہ چلن نہیں، مگر قدیم کتابوں میں پائے جاتے ہیں انہیں "ق" کی علامت سے واضح کیا گیا ہے۔

○ انگریزی اور دوسری غیر ملکی زبانوں کے وہ الفاظ بھی درج کر دیے گئے ہیں جو اردو ادب میں رواج پانچے ہیں۔ اس بارے میں دفتری اصطلاحات اور سائنسی، فنی اور تکنیکی الفاظ کی جو فہرستیں مرتب ہو چکی ہیں ان سے بھی استفادہ کیا گیا ہے۔ نیز اس ادارے نے اپنے طور پر بہت سی آسان اصطلاحات ہتیا کی ہیں۔

○ کتابت کے اعتبار سے الفاظ کی دو قسمیں ہیں۔ ایک بنیادی لفظ، دوسرے ضمنی۔ بنیادی لفظ جس کے مکملے نہ ہو سکیں یا جس کے اجزا باہمی نہ ہوں جیسے مادہ، سادہ وغیرہ۔ ضمنی الفاظ درہل مرکبات ہیں۔ جیسے جادہ پیمانہ اور سادہ لوح وغیرہ۔

○ ہر بنیادی لفظ کو حاشیے سے ملا کر لکھا گیا ہے اور ضمنی الفاظ کو بنیادی لفظ کے تحت حاشیہ چھوڑ کر لکھا گیا ہے۔ البتہ مشتقات کو بنیادی الفاظ کے تحت نہیں لکھا گیا، بلکہ انہیں بنیادی الفاظ قرار دیا گیا ہے۔

○ ہر بنیادی لفظ کے ارکان کو توہین میں اعراب کے ساتھ لکھ دیا گیا ہے تاکہ صحیح تلفظ ادا ہو سکے۔

○ ہر لفظ کے سامنے مکھ دیا گیا ہے کہ یہ کس زبان سے اردو میں آیا ہے۔

○ اسماء کی تذکیر و تانیث کی وضاحت (مذ و مثن) سے کر دی گئی ہے۔ جس الفاظ کی تذکیر و تانیث میں اختلاف ہے ان کے ساتھ (مذ و مثن) لکھ دیا گیا ہے۔

○ ہر لفظ کی صرفی حیثیت ظاہر کرنے کے لیے اسم، ضمیر اور صفت وغیرہ کی علامتیں درج کر دی گئی ہیں۔

○ امر کو مرکبات کی بنیاد قرار نہیں دیا گیا۔ اس لیے کہ اکثر مرکبات میں امر کا مفہوم باقی نہیں رہتا جیسے جا۔ پھینچا۔ اٹھ بیٹھ کر وغیرہ میں۔ اس قسم کے مرکبات کو حروف تہجی کی ترتیب سے لکھا گیا ہے۔

○ جو الفاظ اردو زبان میں، اپنی آزاد حیثیت رکھتے ہیں اور ساتھ ہی کسی شہر یا شخصیت کا نام، لقب یا تخلص بھی ہیں۔ ان کی

- وضاحت بھی کر دی گئی ہے۔ لیکن کسی ایسی شخصیت کا ذکر نہیں کیا گیا ہے جو بقید حیات ہے۔
- انگریزی الفاظ اردو کے علاوہ انگریزی حروف میں بھی لکھ دیے گئے ہیں اور اردو میں ان کا وہی تلفظ دیا گیا ہے جس طرح وہ رائج ہیں۔
- قدیم و کئی اردو کے الفاظ و محاورات مدت سے متروک ہو کر غیر مانوس ہو چکے ہیں جن کے باعث اردو لغت میں انہیں جگہ نہیں مل سکی لیکن چونکہ اب بہت سے کئی مخطوطات شائع ہو گئے ہیں، لہذا ایک تجربہ کار ماہر سے الفاظ مدون کرانے کے لئے میں شامل کیے گئے ہیں۔
- عربی اسماء کی جمع کو اور فارسی میں ان کی جمع جو اردو میں مستعمل ہیں انہیں مفرد الفاظ کے ساتھ لکھ دیا گیا ہے۔
- اشعار کے معنی اور مفہوم جدید تحقیقات کے مطابق درج کیے گئے ہیں۔
- الفاظ و محاورات کے معانی لکھنے میں زبان کی صحت و پاکیزگی کا خاص رکھا گیا ہے۔
- کسی ایسے محاورے یا ضرب الامثال کو درج نہیں کیا گیا جو سماج کے کسی فرقے یا طبقے کے احترام کے منافی ہو یا جس سے لوگوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچنے کا اندیشہ ہو۔
- بھ، پھ، تھ، ٹھ وغیرہ ہندی حروف ہیں۔ سب سے پہلے فیروز اللغات میں ہی ان ہندی الفاظ کو ہائے ہوز سے الگ کیا گیا تھا اب یہ الفاظ آپ کو الگ ہندی حروف کے تحت مل سکیں گے۔
- نون کی تینوں قسموں میں علامات کے ذریعے ان کے نون کو واضح کیا گیا ہے۔ نون ساکن کے علاوہ نون کی دو قسمیں ہیں جن میں نون کا اعلان نہیں کیا جاتا اور وزن میں شمار نہیں ہوتا اسے (ن) کی علامت سے ظاہر کیا گیا ہے۔ الا یہ کہ وہ لفظ کے آخر میں ہو جس میں نقطہ نہیں ہوتا مثلاً ہنسی، اندھیرا وغیرہ۔ جس نون کا اعلان نہ ہو لیکن وزن میں شمار ہوتا ہو اسے (ن) سے ظاہر کیا گیا ہے جیسے رنگ، جنگ وغیرہ۔
- اگرچہ تصعیص و درستی پر خاص توجہ دی گئی ہے لیکن پھر بھی اَلْاِنْسَانُ مُرْكَبٌ عَنِ الْخَطَايَا وَالْاِنْسَانُ كَالْاِنْسَانِ کے مطابق اغلاط کا رہ جانا ممکنات سے ہے۔ ہم نے آخر میں ایک صحت نامہ درج کر دیا ہے لیکن اس کے باوجود اگر کوئی غلطی یا غامی نظر آئے تو ازراہ کرم اس سے مطلع فرمائیں تاکہ آئندہ ایڈیشن میں اس کی تصعیص ہو سکے۔

صحت نامہ

فیروز اللغات اردو جامع

صفحہ	کالم	سطر	صفحہ	کالم	سطر
عجب طرح کا انداز ہے	پیشتر کا انداز نہیں	۳۲	۱	۱۵۶	
دریائے میوں کے	دریائے کے	۹۸	۱	۱۳۳	
مقل	مقل	۹	۱	۱۶۵	
پڑتا ہے	ہوتا ہے	۱	۲	۱۶۶	
فن	من	۳	۱	۱۶۰	
عاشق	ممشوق	۱۱	۱	۱۶۸	
انگلیوں میں	انگلیوں پر	۳۹	۲	۱۸۳	
شکایت نہ کرنا	شکایت کرنا	۲۳	۱	۱۹۲	
جھانسا	جھان	۲۵	۲	۱۹۳	
قیامت تک رومیں	قیامت رومیں	۲۹	۱	۱۹۵	
لطف ہو	لطف	۲۷	۲	۱۹۹	
موتا آدمی	موتا	۱۳	۲۰	۲۰۹	
اجت عورت	اجت بے وقوفی	۱۹	۱	۲۱۳	
خاص کاغذات کی کتاب	خاص کاغذات	۳۲	۲	۲۰	
دروازوں پر لٹکتے	دروازوں لٹکتے	۱۰	۱	۲۱۹	
بندھی کلی	بندگی	۲۸	۱	۲۰	
سُن گن لینا	سُن گن جانا	۱۲	۱	۲۲۱	
بونے	بونے	۱۲	۲	۲۰	
ایک نصیبت	کے نصیبت	۱	۱	۲۳۰	
کھانا	کھا	۱	۱	۲۳۰	
تھننا	تھننا	۳۲	۱	۲۳۸	
جس کی کمائی	جس کی کمائی	۲۷	۱	۲۴۷	
بیت المعمور	—	۳۵	۲	۲۵۱	
خواہ اس میں فائدہ کم ہے	اس میں فائدہ کم ہے	۲۲	۲	۲۵۳	
بینگن	بینگن	۲۳	۱	۲۵۸	
کودن	گودن	۳۹	۲	۲۶۵	
PUBLISHER	—	۲	۲۷۲	۲۷۲	
مسائل کو تمثیل	مسائل تمثیل	۲۷	۲	۲۸۵	
اسم مجتہد	رسم ار	۱	۱	۳۰۱	
میدہ	مانڈی	۸	۲	۳۰۲	
گدال	کھال	۱	۳۱۳	۳۱۳	
گوز	پتلی سوز	۲	۳۱۶	۳۱۶	
دزنہ	وزن	۱۷	۱	۳۲۳	
میش	غلط	—	—	—	
میش (۱- مثل)	میش (ع- ا)	۶	۱	۲	
کرنا ہی پڑتا ہے	کرنا پڑتا ہے	۲۳	۲	۲	
ہاتھ سے گئی	ہاتھ گئی	۲	۲	۷	
دوسرے نمبر پر کیا جانے	دوسرے نمبر پر کیا جانے	۱۸	۲	۱۲	
زر مکتھی	زر مکتھی	۲	۲	۱۵	
حکم	—	۱۵	۲	۱۶	
بنگلی	بنگلی	۱۱	۲	۲۳	
آگ کا پتلا	آگ پتلا	۱۲	۲	۲۶	
آنکھوں	آنکھیں	۱	۲	۳۷	
ہوجاتی ہیں	ہوجاتی ہے	۱۹	۰	۰	
اغماض برتنا	اغماض	۲۱	۱	۳۸	
شوخی دیدہ	شوخی دیدہ	۱۵	۱	۳۲	
جانے پرکتے	جانے کوکتے	۳۱	۲	۳۷	
دوڑ دھوپ	دھوڑ دھوپ	۹	۱	۳۸	
زر خیز زمین	زر خیز	۲۶	۱	۵۵	
کنڈے	ٹرے	۱۷	۲	۰	
شوت	موت	۲	۲	۶۷	
کسی کی بزرگی	کسی بزرگی	۹	۲	۷۷	
لفظی جدت پیدا	لفظی پیدا	۱۹	۰	۰	
چالیس وعیشیں	چار وعیشیں	۳۶	۲	۸۱	
HONORARIUM	HONORARY	۱۸	۲	۱۰۱	
فصح	تصحیح	۱۷	۱	۱۰۲	
لپ بھر	پس بھر	۳۲	۲	۱۲۶	
لائی ہیں	لائی ہے	۱۲	۲	۱۲۹	
افسوس ہوتا ہے دوسرے	افسوس دوسرے	۱۵	۲	۱۳۷	
ایک پپ سے لاکھ	ایک پپ لاکھ	۲	۱	۱۳۸	
بمقتضائے	مقتضائے	۱۷	۱	۰	
زندگی مختصر ہے	—	۱۶	۱	۰	
آخر مرتے	آخر نے	۲۱	۱	۰	
دیکھیے ایک چنا	ایک چنا	۲۵	۲	۰	
اہم کام کے	اہم کے	۲۰	۲	۱۵۱	
ہندستان میں پیدا ہونے والا	ہندستان میں پسنے والا	۱۲	۲	۱۵۳	
(عدالتی اصطلاح) نام پر	نام پر	۱	۲	۱۵۳	

صفحہ	کالم	سطر	صفحہ	کالم	سطر	صفحہ	کالم	سطر
۶۹۹	۲	۳۲	۶۹۹	۲	۳۲	۶۹۹	۲	۳۲
۷۰۱	۲	۳۳	۷۰۱	۲	۳۳	۷۰۱	۲	۳۳
۷۰۲	۱	۷	۷۰۲	۱	۷	۷۰۲	۱	۷
۷۰۳	۱	۳۹	۷۰۳	۱	۳۹	۷۰۳	۱	۳۹
۷۰۵	۱	آخری سطر	۷۰۵	۱	آخری سطر	۷۰۵	۱	آخری سطر
۷۰۳	۲	۲۵	۷۰۳	۲	۲۵	۷۰۳	۲	۲۵
۷۰۶	۱	۲۶	۷۰۶	۱	۲۶	۷۰۶	۱	۲۶
۷۰۶	۱	۳۰	۷۰۶	۱	۳۰	۷۰۶	۱	۳۰
۷۰۶	۲	۳۱	۷۰۶	۲	۳۱	۷۰۶	۲	۳۱
۷۰۹	۲	۲	۷۰۹	۲	۲	۷۰۹	۲	۲
۷۰۹	۲	۱۵	۷۰۹	۲	۱۵	۷۰۹	۲	۱۵
۷۰۲	۲	۳۸	۷۰۲	۲	۳۸	۷۰۲	۲	۳۸
۷۰۸	۲	۳۸	۷۰۸	۲	۳۸	۷۰۸	۲	۳۸
۸۱۹	۱	۷	۸۱۹	۱	۷	۸۱۹	۱	۷
۸۳۲	۲	۱۳	۸۳۲	۲	۱۳	۸۳۲	۲	۱۳
۸۳۳	۱	۲۰	۸۳۳	۱	۲۰	۸۳۳	۱	۲۰
۸۳۹	۲	۱۸	۸۳۹	۲	۱۸	۸۳۹	۲	۱۸
۷	۲	۲۹	۷	۲	۲۹	۷	۲	۲۹
۷	۲	۳۳	۷	۲	۳۳	۷	۲	۳۳
۷	۲	۳۴	۷	۲	۳۴	۷	۲	۳۴
۷	۲	آخری سطر	۷	۲	آخری سطر	۷	۲	آخری سطر
۸۴۰	۲	۱۴	۸۴۰	۲	۱۴	۸۴۰	۲	۱۴
۸۴۱	۲	۸	۸۴۱	۲	۸	۸۴۱	۲	۸
۸۴۲	۲	۱۱	۸۴۲	۲	۱۱	۸۴۲	۲	۱۱
۸۴۳	۲	۱۱	۸۴۳	۲	۱۱	۸۴۳	۲	۱۱
۸۶۴	۱	۱۱	۸۶۴	۱	۱۱	۸۶۴	۱	۱۱
۷	۲	۳۹	۷	۲	۳۹	۷	۲	۳۹
۸۶۵	۲	۱۷	۸۶۵	۲	۱۷	۸۶۵	۲	۱۷
۸۶۶	۲	۱۲	۸۶۶	۲	۱۲	۸۶۶	۲	۱۲
۷	۲	۲۳	۷	۲	۲۳	۷	۲	۲۳
۸۶۸	۱	۱۴	۸۶۸	۱	۱۴	۸۶۸	۱	۱۴
۸۷۷	۲	۲۶	۸۷۷	۲	۲۶	۸۷۷	۲	۲۶
۹۱۲	۲	۲۶	۹۱۲	۲	۲۶	۹۱۲	۲	۲۶
۹۱۶	۲	۲۷	۹۱۶	۲	۲۷	۹۱۶	۲	۲۷
۹۲۳	۱	۱۴	۹۲۳	۱	۱۴	۹۲۳	۱	۱۴
۷	۱	۱۷	۷	۱	۱۷	۷	۱	۱۷
۱۰۳۴	۲	۳۰	۱۰۳۴	۲	۳۰	۱۰۳۴	۲	۳۰

صفحہ	کالم	سطر	صفحہ	کالم	سطر	صفحہ	کالم	سطر
۳۲۵	۱	۲۰	۳۲۵	۱	۲۰	۳۲۵	۱	۲۰
۳۳۰	۱	۲۹	۳۳۰	۱	۲۹	۳۳۰	۱	۲۹
۳۳۱	۱	۱۱	۳۳۱	۱	۱۱	۳۳۱	۱	۱۱
۳۴۵	۲	۳۰	۳۴۵	۲	۳۰	۳۴۵	۲	۳۰
۳۶۲	۲	۲۳	۳۶۲	۲	۲۳	۳۶۲	۲	۲۳
۳۷۸	۱	۱۵	۳۷۸	۱	۱۵	۳۷۸	۱	۱۵
۳۸۶	۲	۳۶.۳۵	۳۸۶	۲	۳۶.۳۵	۳۸۶	۲	۳۶.۳۵
۳۹۱	۱	۱۰	۳۹۱	۱	۱۰	۳۹۱	۱	۱۰
۴۳۱	۲	پہلی سطر	۴۳۱	۲	پہلی سطر	۴۳۱	۲	پہلی سطر
۴۵۶	۲	۲۷	۴۵۶	۲	۲۷	۴۵۶	۲	۲۷
۴۵۸	۲	۶	۴۵۸	۲	۶	۴۵۸	۲	۶
۴۶۲	۱	۳۶	۴۶۲	۱	۳۶	۴۶۲	۱	۳۶
۴۶۲	۲	۷	۴۶۲	۲	۷	۴۶۲	۲	۷
۴۸۳	۲	۲۲	۴۸۳	۲	۲۲	۴۸۳	۲	۲۲
۵۰۲	-	۷	۵۰۲	-	۷	۵۰۲	-	۷
۵۰۶	۲	۳۲	۵۰۶	۲	۳۲	۵۰۶	۲	۳۲
۵۱۵	۱	۳۵	۵۱۵	۱	۳۵	۵۱۵	۱	۳۵
۵۳۲	۱	۵	۵۳۲	۱	۵	۵۳۲	۱	۵
۷	۲	۹	۷	۲	۹	۷	۲	۹
۵۳۷	۱	۳۷	۵۳۷	۱	۳۷	۵۳۷	۱	۳۷
۵۷۷	۲	۷	۵۷۷	۲	۷	۵۷۷	۲	۷
۵۹۸	۱	۳	۵۹۸	۱	۳	۵۹۸	۱	۳
۶۰۰	۲	۲۲	۶۰۰	۲	۲۲	۶۰۰	۲	۲۲
۶۰۶	۱	۲۳	۶۰۶	۱	۲۳	۶۰۶	۱	۲۳
۶۰۹	۱	۳۶	۶۰۹	۱	۳۶	۶۰۹	۱	۳۶
۶۳۸	۱	۳۷	۶۳۸	۱	۳۷	۶۳۸	۱	۳۷
۶۵۷	۱	۱۸	۶۵۷	۱	۱۸	۶۵۷	۱	۱۸
۷	۱	۳۴	۷	۱	۳۴	۷	۱	۳۴
۶۸۲	۱	۴	۶۸۲	۱	۴	۶۸۲	۱	۴
۷	۱	۳۵	۷	۱	۳۵	۷	۱	۳۵
۶۸۸	۲	۲	۶۸۸	۲	۲	۶۸۸	۲	۲
۷	۲	۵	۷	۲	۵	۷	۲	۵
۶۸۹	۱	۲۳	۶۸۹	۱	۲۳	۶۸۹	۱	۲۳
۶۹۶	۲	۳۷	۶۹۶	۲	۳۷	۶۹۶	۲	۳۷

صفحہ	کالم	سطر	غلط	صحیح
۱۳۱۳	۲	۲۱	ذخیرہ رہنے کی	ذخیرہ کرنے کی
۱۳۱۵	۲	۳۴	(اضافہ)	گانے کے فن کا ماہر
۱۳۱۷	۲	۱۱	بنایا جاتا	بنایا جاتا تھا
۱۳۲۳	۱	۲۵	اہلادوں	لوہاروں
۱۳۲۹	۱	۲۳	میرا نامانے	میرا کہنا نامانے
۱۳۳۷	۲	۱۸	کسی ہو جاتی	کسی کی ہو جاتی
۱۳۷۶	۱	۳۷	نگاہ کھیننا	نگاہ میں کھیننا
۱۳۸۳	۱	آخری سطر	_____	طنز اور توہین
۱۳۸۵	۲	_____	_____	VITAMIN
۱۳۸۷	۲	۱۲	چلنے وقت	چلنے کا وقت
۱۳۲۴	۱	۲۱	عطانا	عطا کرنا
۱۳۲۹	۱	۱۵	_____	HALL
۱۳۳۸	۲	۳۰	شدت کا دھوپ	شدت کی دھوپ
۱۳۳۹	۱	۲۴	جب تک ہری پک	جب تک ہری فصل پک
۱۳۴۶	۱	۱۶	شکوہ چھوڑنا	شکوہ چھوڑنا
۱۳۴۸	۲	۱۵	عورتیں	عورتوں
۱۳۵۹	۲	۲۱۳	رہتے ہیں	رہتی ہے
۱۳۶۱	۲	۲۰	_____	HEALTH

صفحہ	کالم	سطر	غلط	صحیح
۶۸۹	۲	۴	_____	پھراؤ
۱۰۹۰	۱	۲۶	کسی ذتے	کسی کے ذتے
۱۱۰۹	۱	۳۹	_____	گڑوں کا راج (غلا تریب)
۱۱۳۷	۲	آخری سطر	_____	گیلا (گی۔ لا)
۱۱۴۱	۱	۳۹	جوا تھ	جوا تھ میں ہو
۱۱۴۳	۱	۱۹	رتوانے	بڑھانے
۱۱۶۵	۲	۲۳	پاؤن	پان
۱۱۷۸	۲	۲۳	مادام الجہات	مادام الحیات
۱۱۸۷	۱	۲۰	سوکے	سوکھے
۱۲۴۳	۱	۱۶	_____	CONFIRMATION
۱۲۶۸	۱	۸	فعل کا	فعل کی
۱۲۷۳	۲	۲	_____	چاہا گیا
"	"	"	_____	مصطلحت
۱۲۷۸	۲	۱۶	بند ہوتا ہے	بند ہو جاتا ہے
۱۲۹۲	۲	۱۲	ہٹی	ہٹیا
۱۲۹۷	۲	۴	نیلی چھول	پیلے چھول
۱۲۹۹	۲	۲۲	(اضافہ)	شرمنہ ہونا
۱۳۱۱	۲	۳۰	کن	ہٹا کتا

علامات و اشارات

اس نُذت میں الفاظ کے مآخذ اور صرفی حیثیت کی توضیح و وضاحت کے لیے حسب ذیل اشارات و علامات اختیار کی گئی ہیں :

پر	پرتگالی	ع	عربی
لاط	لاطینی	ف	فارسی
ق	قدیم	ہ	ہندی
ا	اسم	س	سنسکرت
صف	صفت	ت	ترکی
ض	ضمیر	اُ	اُردو
مصر	مصدر	پ	پنجابی
مذ	مذکر	سندھ	سندھی
مرث	مؤنث	گ	گجراتی
	دیگر اشارات، مصدر	بنگ	بنگالی
[]	(مذکر و مؤنث) مآخذ	پا	پالی
	وغیرہ کے لیے	پش	پشتو
،	وقفہ خفیف	انگ	انگریزی
-	وقفہ کامل	فر	فرانسیسی

الف

۱۔ الف، ا، ع، ا، غ، ا، ذ، اردو، فارسی، عربی، پنجابی، سندھی، پشتو اور بوجی حروف تہجی کا پہلا حرف۔ ہندی میں بطور حرف علت استعمال ہوتا ہے۔ مصر کے بیرد غلیفی خط میں "ا" بیل کے سر سے تعبیر کیا جاتا تھا۔ قدیم مصری زبان میں بیل کو آدا کہتے تھے۔ اس لیے پنجابی رسم تحریر کے وقت فیثقی زبان میں اس کا نام الف ہوا۔ الف کی دو قسمیں ہیں؛ ممدودہ اور مقصورہ۔ الف ممدودہ کو پینچ کر پڑھتے ہیں اور اس کے اوپر مد ہوتا ہے۔ جیسے آپ، آگ، آمد الف مقصورہ کو الف پینچ کر نہیں پڑھتے۔ جیسے اگر، اٹل۔
علامتی اعتبار سے الف کے معنی ہیں؛ خدماتے واحد۔ حقیقت کی کلید۔ راستی۔ راست بازی۔ مفرد، اکیلا۔ ایک۔ مجرّم، ننگا۔ دلیر، بہادر۔ حساب، بجد میں اس کا عدد ایک ہے۔
الف کلمے کے شروع میں متحرک ہوتا ہے۔ ساکن نہیں ہوتا۔ کلمے کے وسط میں الف مندرجہ ذیل حالتوں میں ان علامات کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔

- ۱۔ حرف اتصال۔ عطف کے لیے جیسے ننگا پو ننگ اور پو شبار روز (شب و روز)۔
 - ۲۔ انحصار و استیعاب کے موقع پر جیسے سراپا سر سے پانک، مونہا منہ۔
 - ۳۔ متجانسین کے مابین جیسے مارا مارا، زنگا زنگ، چھا چھا، گرما گرم۔
 - ۴۔ اضافت جیسے سوتیا ڈاہ، بھیریا چال، موتیا ہندا، موسلا دھار۔
 - ۵۔ علامت فاعل جیسے قائل، عالم۔
 - ۶۔ علامت جمع جیسے مساجد، فلاں ب۔
- کلمے کے آخر میں الف مندرجہ ذیل حالتوں پر ان علامات کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔
- ۱۔ علامت تعدید جیسے جلا نا، جلا نا، چلنا سے چلانا، نکلنا سے نکالنا۔
 - ۲۔ علامت ماضی مطلق جیسے چلا، اٹھا، سنا۔
 - ۳۔ علامت حالیہ تمام جیسے کھلا، کھلا ہوا،
 - ۴۔ علامت تذکیر جیسے بھیسا، مرغا، بڑا۔
 - ۵۔ علامت تانیث جیسے مالا، بیوا، رادھا، صفری، کبریٰ، علیا، سلہا۔
 - ۶۔ علامت صفت جیسے اونچا، چھوٹا، نیچا۔
 - ۷۔ علامت اسم و حاصل مصدر جیسے جھگڑا، بلاوا۔
 - ۸۔ علامت تکریر جیسے لوگرا، ٹسکا۔
 - ۹۔ حرف الحاق جیسے ڈورا، بلما، جوڑا۔

- ۱۰۔ حرف ندب جیسے ناہما، خدایا۔
 - ۱۱۔ حرف ندب جیسے حسرتا، دردا۔
 - ۱۲۔ حرف فاعل جیسے دانا، بیٹا، شنوا۔
 - ۱۳۔ حرف کثرت جیسے خوشا، بہت اچھا،
- أ (الف مفتوح)
- ۱۔ حرف نفی کے طور پر جیسے اٹل، اچھوت، اٹھ۔
 - ۲۔ حرف ندا جیسے اہی، آجے۔
 - ۳۔ سابقہ بمعنی کثرت جیسے اہیل۔
 - ۴۔ حرف تفضیل کے طور پر جیسے اشرف، اکبر۔
- أ (الف مضموم)
- ۱۔ دُور کا اشارہ جیسے ادھر، اُس۔
 - ۲۔ سابقہ بمعنی اوپر جیسے اٹھنا، اکھڑنا، اٹھنا۔
 - ۳۔ سابقہ بمعنی نیچے، دوسری طرف جیسے اُلٹ۔
- ا (الف کمسور)
- ۱۔ قریب کا اشارہ جیسے ادھر، اتنا۔
 - ۲۔ بدل جیسے ابن راصل میں "بنو" تھا،
 - ۳۔ علامت مصدر جیسے انتظار (عربی)

مشراب (۶) شوربا، بھیلوں کا قدرتی رس (۸) رونق (۹) چمک (۱۰) عزت قدر (۱۱) جوہر۔
 آب آب کمرہ کے لئے سر ہانے دھرا ہا پانی (۱)۔ مثل (۱) مادری زبان پر دوسری زبان کو ترجیح دینے کی خرابی۔
 آب آب کرنا (۱)۔ محاورہ (۲) شرمندہ کرنا۔ شرم دلانا (۳) نرم کرنا۔
 آب آب ہونا (۱)۔ محاورہ (۱) پانی پانی ہونا۔ پسینہ پسینہ ہونا۔ (۲) ہمہ نکلنا (۳) شرمندہ ہونا۔ نام ہونا۔ ہلکا ہونا (۴) لاپچار ہونا۔ بے بس ہونا (۵) اُمنڈ آنا۔
 آب آتش رنگ۔ آتش مزاج۔ آتشک۔ آتشیں (۱)۔ شراب سرخ (۲) خون کے آسنو۔
 آب آجانا (۱)۔ محاورہ (۱) اوزار یا ہتھیار کی تیز دھار ہونا۔ بارگھ چڑھنا (۲) چمک اور جلا کا آنا۔ صفائی پیدا ہونا۔ رونق آجانا۔
 آب آخرت۔ غسل میت جو مرنے کے بعد دیا جاتا ہے۔
 آب آبد، یتیم ہر خاصیت ان۔ مثل (۱) اصل چیز آنے کے بعد فرع کی ضرورت نہیں رہتی۔ جیسے بانی طبع کے بعد ہمہ کے کار ہو جاتا ہے۔
 آب آنا (۱)۔ محاورہ (۱) چمک آنا۔ ہتھیار کی دھار تیز ہونا۔
 آب آہن (۱)۔ ارمٹا لوہے کی چمک۔
 آب آہن تاب (۱)۔ مذ (۱)۔ آدھ پانی جس میں لوہا گرم کر کے بچھا یا جاتا ہو۔
 آب آئینہ (۱)۔ مذ (۱)۔ آئینہ کی صفائی (۲)۔ قلعی۔ چمک تیزی۔
 آب آترنا (۱)۔ آتر جانا (۱)۔ محاورہ (۱)۔ چمک جانی رہنا (۲)۔ اے عزت ہونا۔ عزت پر حرم آنا۔ عزت دو کوڑی کی رہ جانا۔
 آب آہر (۱)۔ اعرار (۱)۔ معنی شراب۔
 آب آٹنا (۱)۔ محاورہ (۱)۔ چمک جانی رہنا (۲)۔ دھار کندھو جانا۔
 آب از سرگزشت (۱)۔ مثل (۱)۔ پانی سر سے گزر گیا۔ مصیبت حد سے بڑھ گئی۔
 آب استادہ (۱)۔ مذ (۱)۔ کھڑا ہوا پانی۔ مکا ہوا پانی۔
 آب آسیا۔ وہ پانی جس کے زور سے پتھر چلی جاتی ہے۔
 آب ازبار۔ برائوں جو قلعوں میں پانی کا ذخیرہ رکھنے کے لیے ہوتا ہے۔
 آب انکور (۱)۔ مذ (۱)۔ انکور کا پانی۔ انکور کا عرق (۲)۔ مراد شراب۔
 آب باران (۱)۔ مذ (۱)۔ بارش کا پانی۔
 آب باز۔ پانی میں تیرنے والا۔
 آب بازی (۱)۔ مذ (۱)۔ پانی سے کھیلنا۔ پانی سے ایک دوسرے پر چھینے ڈرانا۔
 آب برآئینہ (۱)۔ معنی (۱)۔ مثل (۱)۔ ایران کی رسم سے کہ جب کوئی سفر کو جانا ہے تو آئینے پر سبزیت رکھ کر پانی ڈالتے ہیں اور خیریت سے واپس آنے کا شگون لیتے ہیں۔
 آب بردن (۱)۔ محاورہ (۱)۔ بے رونق کرنا۔ خراب کرنا۔
 آب بستہ (۱)۔ مذ (۱)۔ بجا ہوا پانی۔ برف (۲)۔ اوسے (۳)۔ سب (۴)۔ بلور کا پیار۔

آ آس (۱)۔ آگے بڑھنے کا حکم۔ جہاں خمد (۲) کم مرتبے والے کو بلانے کی آواز۔
 آ آس (۳)۔ کبوتروں کو بلانے کی آواز (۴)۔ سر یا تان لینے کی آواز (۵)۔ مصدر آنا کا صیغہ عام واحد حاضر (۶)۔ بازی گردوں یا مداروں کے کسی غائب چیز کو بلانے کی آواز۔
 آ آ۔ بالتوں پر نمودوں کو بلانے کی آواز۔
 آ آبلانے پڑا، نہیں پڑنی تو بھی پڑا (۱)۔ مثل (۱)۔ خواہ مخواہ لڑائی مول لینے کی نسبت کہتے ہیں۔
 آ آٹنا (۱)۔ محاورہ (۱)۔ مثل (۱)۔ بلانا دل ہونا۔ مصیبت پڑنا۔
 آ آٹو لڑیں، لڑے ہماری بلا (۱)۔ مثل (۱)۔ جو خواہ مخواہ مول لڑائی مول لے۔
 آ آتیں اس کی نسبت کہتی ہیں۔
 آ آے سوئے تیری باری۔ کان چھوڑ کینٹی ماری (مثل) کسی کام میں لگانا۔
 آ آکام رہ کر آخری تدبیر کرنا۔
 آ آبل مجھے مار (مثل) خواہ مخواہ جھگڑے میں پڑنا۔ لڑائی مول لینا۔
 آ آے نوٹے جا بے نوٹے کرنا (۱)۔ مثل (۱)۔ پھرنا پھرنا، دوڑانا، ہلچل پھیر کرنا۔ وقت گزارنا۔
 آ آٹنا۔ آ موجود ہونا، ٹیک پڑنا (۲)۔ ٹوٹ پڑنا۔ حملہ آور ہونا (۳)۔ کسی کے گھر آ رہنا، غیر متوقع مصیبت یا آفت نازل ہونا۔
 آ آٹوسن (لڑ، لڑیں) (۱)۔ مثل (۱)۔ خواہ مخواہ لڑائی مول لینے کے وقت کہتے ہیں۔
 آ آٹوسن لڑیں۔ بے سبب زبردستی کی چھیڑ چھاؤ کرنا۔
 آ آٹوسن جھگڑے ہو۔ اپنے ساتھ دوسروں کو گھمی بر باد کرنا۔
 آ آٹینچنا (۱)۔ محاورہ (۱)۔ منزل طے کرنا۔ پہنچ جانا۔
 آ آٹینسا (۱)۔ محاورہ (۱)۔ پھنس جانا (۲)۔ فریب میں آنا۔
 آ آٹینسے کی بات ہے یا پھنسی کا معاملہ ہے (۱)۔ مثل (۱)۔ مجبور آسب کچھ کرنا پڑتا ہے۔
 آ آجانا (۱)۔ محاورہ (۱)۔ سیکر لینا۔ پہنچ جانا۔
 آ آربانا (۱)۔ محاورہ (۱)۔ پھو لینا۔ دلہن لینا۔
 آ آڑھمکتا (۱)۔ محاورہ (۱)۔ بے دھڑک چلے آنا۔ اچانک آجانا۔
 آ آڑٹا۔ ڈیرہ جم لینا۔ آ موجود ہونا۔
 آ آڑہنا (۱)۔ محاورہ (۱)۔ سکونت اختیار کرنا۔ رگر پڑنا۔ کھٹ کرنا۔
 آ آکتنا (۱)۔ محاورہ (۱)۔ قریب آجانا۔ پہنچنا۔
 آ آکتنا (۱)۔ محاورہ (۱)۔ پکڑ لینا۔ قریب پہنچ جانا۔
 آ آکتنا (۱)۔ محاورہ (۱)۔ آ موجود ہونا (تحقیق) آ آجانا۔
 آ آکتنا (۱)۔ محاورہ (۱)۔ اے ارادہ پہنچ جانا۔ اتفاقاً چلے آنا۔

آب

آب (۱)۔ مذکر (۱)۔ پانی (۲)۔ پسینہ (۳)۔ آسنو (۴)۔ عرق (۵)۔ خالص

(۱۵) شیشہ (۶) تلوار۔

آب بقاوت۔ (ع۔ ۱۰۔ مذ) آب حیات (۱۲) امرت جل۔

آب بکھڑا (۱) محاورہ (چمک جانی رہنا، مامد ہو جانا (۲) دھار کند ہو جانا۔

(۳) عزت میں کمی آجاتا۔

آب بلی۔ ناک کی رطوبت۔ رینٹھ۔

آب پاش (۱) درختوں اور پودوں کو پانی دینے کا برتن (۲) سقا۔ بہشتی۔

آب پائشال۔ ایران کا ایک تنواری جس میں ایک دوسرے پر گلاب بھرتے ہیں

آب پاشی (۱) سینینا۔ کھیتی کو پانی دینا (۲) پانی کا پھر کا ڈگرنا۔

آب پشتت (ف۔ ۱۔ مذ)۔ نطھ۔ مٹی۔

آب پیکان (ف۔ ۱۔ صفت) تیر کی نوک کی تیزی۔

آب پیما (ف۔ ۱۔ مذ) (۱) مقیاس الماء۔ ماثقات کی کثافت اضافی

معلوم کرنے کا آلہ۔ جس سے ماثقات کے خالص، تخلص ہونے کا پتہ

چلتا ہے۔ (Hydrometer)

آب تاب (ف۔ ۱۔ مٹ) (۱) بھرک۔ چمک دمک (۲) آرائش۔ رونق۔

روپ۔ زیبائش۔

آب تری (ف۔ ۱۔ مٹ) جنوں سگ گزیدگی۔ بہرک۔ پاگل کتے کے کھٹنے

کے باعث پانی سے ڈرنا۔

آب تیغ (ف۔ ۱۔ صفت) (۱) شرب (۲) تیزاب (۳) کھاری پانی (۴) آنسو۔

آب تیغ۔ تلوار کی کاٹ۔ تیزی۔ چمک۔ صفائی۔

آب جاری۔ بہتا ہوا پانی۔ رواں پانی۔

آب جانا (۱) چمک زور ہونا (۲) دھار کند ہونا۔

آب جوت۔ (۱) مٹ (۲) چشمہ۔ ندی۔ نالہ۔ نہر۔

آب جوش (۱) بجی۔ گوشت کا عرق (۲) سوڈا وارٹ۔

آب چڑھانا (۱) صیقل کرنا۔ صاف کرنا۔ جلا دینا (۲) بارٹھ رکھنا۔ تھپڑانا

آب چڑھینا۔ صیقل ہونا۔ صاف ہونا۔ جلا ہونا۔ بارٹھ ہونا۔

آب چشمہ۔ آنکھ کا پانی۔ آنسو۔ اشک۔

آب چمک۔ پانی پینے کی جگہ۔

آب چواڑ سرگزشت، چریک نیزہ چریک دست (۱) آب

پانی سر سے اڑنا ہو گیا تو پھر کچھ بھی ہو۔ مصیبت یا بدنامی حد سے بڑھ جانے

تو پھر احساس ختم ہو جاتا ہے۔

آب حرام (۱) ناپاک پانی جس کا پینا درست نہیں (۲) شراب وغیرہ۔

آب حیات (۱) امرت۔ جس کے پینے سے موت نہیں آتی کہتے ہیں

حضرت خضر نے آب حیات پایا ہے۔ آب حیوان۔ مولانا محمد حسین آزاد

کی کتاب کا نام ہے جس میں شعرائے اردو کا ذکر کیا گیا ہے۔

آب خاصہ۔ امیروں یا بادشاہوں کے پینے کا پانی۔

آب راجت۔ اجمالت۔ شرم سے پانی پانی ہو جانا۔

آب خضر۔ آب حیات۔ وہ پانی ہے کہ حضرت خضر نے ہمیشہ کی پانی

آب خضر۔ خجور کی تیزی۔ کاٹ۔

آب خور۔ پانی پینے کا چھوٹا سامی کا برتن۔ کوڑہ۔

آب بخور سے بھرنا۔ آبخوروں میں شربت یا دودھ بھر کر نیاز دلوانا۔

آب خیر (۱) نہر۔ موج۔ پانی کا بہاؤ (۲) وہ زمین جہاں پر کھوڑا سا کھوڑے

پر پانی نکل آئے۔

آب آرزو (۱) تازہ و سیراب (۲) وہ شخص جو امیروں کے ہاں پانی پلانے پر

مقرر ہوا (۳) چکیلا، صاف (۴) تیز دھار کا ہتھیار (۵) میلا۔ خوبصورت

(۶) لطیف و نفیس۔

آب آرزو (ف۔ ۱۔ مذ) پانی رکھنے کا کمرہ۔

آب آربی (ف۔ ۱۔ صفت) (۱) بارٹھ تیزی (۲) چمک دمک۔ جلا (۳) اطروت

لطافت، خوبی (۴) آبدار خانہ کی خدمت۔

آب آربی دینا (۱) چمکانا۔ پاش کرنا (۲) اوزار پر پانی چڑھانا۔ اوزار

تیز کرنا۔

آب دان (ف۔ ۱۔ مذ) تالاب۔ حوض (۲) پانی کا برتن۔

آب دانہ (ف۔ ۱۔ مذ) دانہ پانی۔ آن بجل۔ روزی۔ رزق۔

آب ڈر (۱) موتی کی چمک (۲) جلا (۳) آب ذتاب۔

آب دست (ف۔ ۱۔ مذ) (۱) استیجا۔ طہارت (۲) پاکیزگی جو پانی سے کھائے۔

آب دست (کرنا) لینا۔ استیجا کرنا۔ طہارت کرنا۔

آب دندان (ف۔ ۱۔ صفت) دانتوں کی چمک۔

آب دور (ف۔ ۱۔ مٹ) (Submarine) (۱) ڈبکشی کشتی۔ تخت البحر

کشتی۔ وہ جگہ کشتی جو سطح آب کے نیچے بھی چل سکتی ہے اور ادر بھی۔

آب دہن (۱) مٹنے کا لعاب (۲) کلی کا پانی۔

آب دیدہ۔ آنکھوں کا پانی۔ آنسو۔

آب دیدہ۔ وہ شخص جس کی آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے ہوں۔

آب دیدہ پر آمادہ۔ روانہ۔

آب دیدہ (رہنا) ہونا (۱) محاورہ (۲) آنکھوں میں آنسو بھرے رہنا۔ نگینہ

آب دینا (۱) محاورہ (۲) کسی دھار والی چیز کو سان پر لگانا یا پتھر پر تیز

کرنا (۳) سینینا (۴) چمکانا۔ جلا دینا۔

آب رحمت (ف۔ ۱۔ مذ) (۱) بارش۔ مینہ (۲) بخشش۔ معافی۔

آب (رکھنا) رکھوانا (۱) محاورہ (۲) سان چڑھانا۔ دھار تیز کرنا۔ بارٹھ رکھنا

آب رواں (ف۔ ۱۔ مذ) ایک قسم کا باریک کپڑا جو نہایت باریک

ہوتا ہے (۲) بہتا ہوا پانی۔

آب ریز (۱) پانی گرنے کی جگہ (۲) دوات میں پانی ڈالنے کی جگہ۔

آب زر (ف۔ ۱۔ مذ) سونے کا پانی جو فاضلی یا کتا بت میں کام آتا ہے۔

آب زر سے لکھنے کے قابل ہے۔ (۱) صفت (۲) نہایت احترام اور عزت

کے قابل بات۔

آب زلال (ف۔ ۱۔ مذ) (۱) صاف شفاف پانی (۲) تھرا ہوا پانی (۳)

بھیگی ہوئی دوا کا پانی۔

آب زمزم (ف۔ ۱۔ مذ) زمزم کا پانی۔ مکہ معظمہ کا ایک خاص چشمہ جو

حضرت اسماعیل کے لیے جاری ہوا تھا۔

آب زن۔ وہ ظرف جس میں دواؤں کا جوش کیا ہوا پانی بھر کر مریض کو

اس میں بٹھاتے ہیں۔

آب زن کرنا۔ دوا کے پانی میں بٹھانا (۲) اٹھانا۔

آب زندگانی (زندگی) آب بقا۔ آب حیات

آب زنی (ت) ۱۔ مٹا چھڑکاؤ۔ پانی ڈالنا۔

آب زبر کا (۱۱) پانی جو گھاس کے نیچے چھپا ہوا ہو (۲) مکار آدمی۔

آب بسبل۔ وہ پانی جو پیاسوں کے لیے سرراہ رکھتے ہیں اور مہفت بلاتے ہیں

آب کسرخ (ت) ۱۔ مٹا (۱۱) شراب (۲) اشک خونیں (۳) وہ پانی جس کا

رنگ سرخ ہو۔

آب سیاہ (ت) ۱۔ مٹا (۱۱) شراب (۲) گہرا پانی۔ جھنور کا پانی (۳) دولت

کی سیاہی (۴) مونیا بند۔ آنکھ کی بیماری۔

آبشار (ت) ۱۔ مٹا بھرتا۔ اونچی جگہ سے گرنے والا قدرتی پانی۔

آب بنہرم (ت) ۱۔ مٹا شرمندگی کا پانی۔ وہ پسینہ جو نہامت کی وجہ سے آئے۔

آب شمشیر (ت) ۱۔ مٹا تلوار کی چمک یا دھار۔

آب ششکس (ت) ۱۔ مٹا حقیقت دان۔ ماہر۔ ملاح۔

آب شعور (ت) ۱۔ مٹا کھاری پانی۔ سمندر کا پانی۔ نمکین پانی۔

آب شورہ (ت) ۱۔ مٹا شورے میں ٹھنڈا کیا ہوا پانی (۲) بیمو کا شربت

آب شیریں (ت) ۱۔ صفت میٹھا پانی۔

آب عنیب (ت) ۱۔ مٹا انگوری شراب

آب کار (ت) ۱۔ مٹا شراب فروش۔ کلال۔

آب کاری (۱۱) شراب کھینچنے اور کھینچنے کا کارخانہ یا جگہ (۲) وہ محلہ جس میں

مسرکات کا محصول لیا جاتا ہے۔

آب کش۔ کنویں سے پانی نکلنے والا۔ سقا۔

آب کوثر۔ جو حق کوثر کا پانی۔

آب کوثر سے دھلی ہوئی زبان۔ بڑی صاف ستھری شستہ اور پاکیزہ زبان

آب گل (ت) ۱۔ مٹا گلاب کا عرق۔ پھولوں کا پانی۔

آب گلزنک، گلنوں، گلاب کے پھول کے رنگ کا پانی مراد مرع شراب

آب کوثر شت۔ گوشت کا پانی یعنی۔ شوربا۔

آب گوں (۱۱) پانی کے رنگ کا (۲) آسانی رنگ کا، ہلکا سیلا (۳) شیشہ (۴)

برق (۵) چمیلی تلوار (۶) گندم کا نشاستہ (۷) آسمان۔

آب گوہر (ت) صفت (صفت) موتی کی چمک۔

آب گبر (۱۱) حوض۔ تالاب (۲) وہ جگہ جہاں پانی جمع ہوا (۳) جولا ہوں کا ایک

روز اور جس سے نئے ہوئے سوت پر پانی پھرتے ہیں۔

آب گیند (ت) ۱۔ مٹا (۱۱) شیشہ۔ کالج۔ بلور۔ آئینہ (۲) الماس (۳) انگوری

آب گیند فالوس (ت) ۱۔ مٹا لائٹن کا شیشہ

آب مٹ جانا آب و تاب جاتی رہنا۔ رونق جاتی رہنا۔

آب مردار برید (۱۱) موتی کی چمک (۲) مونیا بند۔ آنکھ کی بیماری۔

آب مروف۔ صاف پانی۔ نختہ ہوا پانی۔

آب مجھ (۱۱) ڈالنا۔ اوسے (۲) بلور کا پیار (۳) برف۔ یخ۔

آب نلے (ت) ۱۔ مٹا پانی کا وہ تنگ راستہ جو خشکی کے دو بڑے حصوں

کو الٹ کرے اور پانی کے دو حصوں کو ملاتے۔

آب نہامت (ت) ۱۔ مٹا شرمندگی کے آنسو۔

آب ندبیدہ موزہ کشیدہ (ت) پانی دیکھنے پر موزے اتارنا۔ خطرے میں

بتلا ہونے سے پہلے شور مچانا۔

آب نقرہ (ت) ۱۔ مٹا (۱۱) پارہ (۲) چاندی کا پانی، چاندی کا ملمع، چاندی کا گلاب۔

آب نہر ہننا (۱) محاورہ (۲) بے رونق ہوجانا (۳) ہتھیار کی دھار گنہ ہوجانا یا چمک کر ہوجانا (۴) بے عزت ہوجانا (۵) قلعی آتر جانا۔

آب نے (ت) ۱۔ مٹا حقہ میں نیچے کا وہ حصہ جو پانی میں رہتا ہے۔

آب نیساں آنیساں رومی ساتویں مینے کا نام موسم بہار یعنی مارچ اپریل

کی بارش۔ مشورے کر اس کے قطروں سے سیپ میں موتی، بالنس میں

بنسلوچن اور گائے کے کان میں گٹھوچن بنتا ہے۔

آب و تاب (۱) چمک (۲) روشنی (۳) رونق (۴) تیزی (۵) لطافت،

حسن و خوبی، آرائش۔ زیبائش۔

آب و داور۔ دانہ پانی۔ رزق۔ کھانا پینا۔ آن جل۔ خوراک۔

آب و دانہ۔ دانہ پانی۔ آن جل۔ رزق۔ خوراک۔

آب و دانہ ختم ہونا (۱) محاورہ (۲) رزق ختم ہونا، سفر درمیش آنا۔ موت آنا۔

آب و رنگ (۱۱) آب۔ رونق۔ رنگ۔ خطی (۲) صفائی۔ بہار۔ چمک۔

روپ۔ خوبصورتی۔ صفائی (۳) دینا کا مزہ۔ کیفیت۔ سیر۔ نماشا۔

آب و گل (۱۱) پانی اور مٹی (۲) لغات۔ سرشت۔ خمیر (۳) کا بند۔ جسم۔ قالب۔

آب و زبان۔ کھانا پانی۔ رزق۔

آب و نمک (۱) ذائقہ۔ مزہ۔ سواد (۲) ماحضر۔ دال دینا۔ کھانا۔ طعام۔

آب و ہوا (۱۱) پانی اور ہوا (۲) پانی اور ہوا کی کیفیت (۳) موسم۔ رت۔

آب و ہوا بدلنا۔ محاورہ۔ صحت و تندرستی کی بحالی کے لیے کسی بہتر جگہ جانا

آب و ہوا کا راس آنا (۱) محاورہ (۲) کسی جگہ کا موسم طبیعت کے موافق ہونا۔

آب و ہوا کا جگاڑ (۱) محاورہ (۲) موسم کی خرابی۔

آب ہند۔ دریلے سندھ۔

آب ہونا (۱۱) رقیق ہونا۔ چلا ہونا۔ پانی ہوجانا۔ گھل جانا (۲) شرمندہ ہونا۔

خفیت ہونا۔ بھینٹنا (۳) بر باد ہونا۔ ضائع ہونا (۴) چمک ہونا۔ جلا ہونا۔

باڑھ ہونا۔ تیزی ہونا (۵) آسان ہوجانا (۶) دھار تیز ہونا۔

آب سیاری (ت) ۱۔ مٹا باغوں اور کھیتوں کو سیرینا۔ پانی دینا۔

آب سائنہ۔ پانی کا محصول۔

آبیا (آ) (با) (ع) ۱۔ مٹا آب کی جمع۔ باپ دادا۔ اگلی پڑھیاں۔

آبا و اجداد۔ باپ دادا۔ مورث۔

آبائے علوی۔ نواسمان۔ سات ستارے۔

آباد (آ) (باد) (ت) صفت (۱۱) بھرا ہوا پانی۔ معمور۔ آدمیوں سے بسا ہوا۔

(۲) بسنے والا۔ رہنے والا۔ (۳) بچر رونق۔ چہل پہل کی جگہ (۴) پھلا پھولا۔

سر سبز شاداب۔

آباد رکھنا (۱۱) بسا رکھنا۔ معمور رکھنا (۲) سلامت رکھنا۔ برقرار رکھنا۔ خوش

مخرم رکھنا (۳) رونق پور رکھنا۔

آباد کاری۔ وہ شخص جو کسی غیر آباد علاقے میں سکونت اختیار کرے غیر آباد

علاقے کو بسنے والا۔ جمع، آباد کاروں۔

آباد کاری۔ غیر آباد علاقوں کا آباد کرنا۔ کسی علاقے کے باشندوں کا معاش

آبرو کی چیز (۱) مرث) وہ چیز جس میں عزت ہو۔
 آبرو کے پیچھے بڑنا (۱) محاورہ) عزت کا لاگو ہونا۔
 آبرو کے دہلے ہونا (۱) محاورہ) آبرو کا لاگو ہونا۔ عزت کے پیچھے بڑنا۔
 آبرو گرہ میں باندھنا (۱) محاورہ) عزت کو بہت عزیز رکھنا۔
 آبرو سنو اتا (۱) محاورہ) (۱) عزت کھوٹا (۲) عصمت میں داغ لگانا۔
 آبرو کھٹانا (۱) محاورہ) (۱) عزت کم کرنا۔ یہ قدری کرنا (۲) پہلی سی عزت کھٹانا۔
 آبرو لٹنا (۱) عزت اور مرتبہ کا برباد ہونا (۲) بے آبرو ہونا۔
 آبرو لوٹ لینا۔ بے عصمت کر دینا۔
 آبرو مٹا دینا۔ عزت کھو دینا۔
 آبرو مٹ جانا (۱) محاورہ) عزت پر پانی پھر جانا
 آبرو ملنا (۱) محاورہ) عزت حاصل ہونا۔
 آبرو موتی کی آب سے (۱) مثل [عزت بہت نازک چیز ہے۔
 آبرو میں ٹٹا لگ جانا (۱) محاورہ) عزت میں خلل پڑ جانا۔
 آبرو میں (داغ، دھبہ لگ جانا۔ (۱) محاورہ) عزت میں خلل پڑ جانا۔
 آبرو ہونا۔ قدر ہونا۔ عزت ہونا۔ رہتہ بڑھنا۔
 آب تفتی (۱) بس۔ ت۔ نی) [ت۔ صفت] حاملہ عورت۔
 آب بلوغ اف۔ مرث) مصری۔ قند۔ مٹھائی۔
 آبلم (آب۔ ل) [ت۔ ۱۰۔ مذ] پھیمولہ۔ چھالہ۔
 آبلم ہٹنا۔ چھالے سے پانی کا جاری ہونا۔
 آبلم یا۔ وہ شخص جس کے پاؤں میں چھالے پڑ گئے ہوں۔
 آبلم پانی۔ پاؤں میں چھالے پڑنا۔
 آبلم بڑنا۔ چھالے کا پیدا ہونا۔ چھالانودار ہونا۔
 آبلم بچنا۔ چھالے میں پیپ پڑنا
 آبلم چھوٹ ہٹنا۔ چھالے کا چھوٹ کر طرہت جاری ہونا۔
 آبلم چھوٹنا (۱) چھال ٹوٹنا (۲) حسرت نکالنا۔ دل کا غبار نکالنا۔
 آبلم چھوٹنا (۱) چھال ٹوٹنا (۲) حسرت نکالنا۔ دل کا غبار نکالنا۔
 آبلم پیدا ہونا۔ چھال نکالنا۔ پھیمولہ نمودار ہونا۔
 آبلم بکنا۔ چھالے میں جلن پیدا ہونا۔
 آبلم ٹوٹنا۔ آبلم چھوٹنا۔
 آبلم ٹوٹنا۔ چھال ٹوٹنا۔
 آبلم چھلنا۔ چھالے میں خراش ہونا۔
 آبلم دار۔ چیچک در۔ چیچک کے داغوں والا۔
 آبلم دل۔ وہ سوزش جو رشک و حسد سے دل میں پیدا ہو۔ اسے دل کا
 چھال قرار دیتے ہیں۔
 آبلم ڈالنا۔ چھال پیدا کرنا۔ تکلیف دینا۔
 آبلم کو۔ مند پر چیچک داغ رکھنے والا۔
 آبلم فرنگ۔ آتشک۔
 آبلم مر جانا۔ چھالے کا خشک ہونا۔
 آبلمے بھرنا۔ چھالے میں رطوبت کا بھر جانا۔
 آبمنوس (آب۔ نوس) [ع۔ ۱۰۔ مذ] ایک مشہور درخت کا نام جس کی لکڑی

سخت، وزنی اور سیاہ ہوتی ہے۔
 آبمنوس کا گندہ (۱) مذ] آبمنوس کا ٹکڑا۔ موٹا اور کالا آدمی۔
 آبمنوسی (آب۔ نوس) [ت۔ صفت] سیاہ رنگ کا کالا۔ آبمنوس سے بنا ہوا۔
 آبمنوسی شاخ۔ آبمنوس کی شاخ۔ آبمنوس کی لکڑی کی بانسری۔
 آبمنی سر پہنے چھوٹا پرائی آس (۱) مثل) مصیبت پڑ جانے پر دوسروں
 سے امید نہ رکھنی چاہیئے۔
 آبی (آبی) [ت۔ صفت] پانی سے منسوب (۲) پانی میں رہنے والا (۳)
 خمیری روٹی کی ایک قسم (۴) ہلکا ہلکا نیلا رنگ (۵) وہ زمین جس میں آبی پانی
 ہوتی ہے (۶) سرکش۔ سرکشی، انکار کرنے والا (۷) نمی۔ گیلپن۔
 آبی بروج۔ آسمان کے وہ برج جن کی صفت آبی ہے۔ یعنی سرطان۔ عقرب۔
 اور حوت۔
 آبی حرف۔ ابجد کے حساب سے سات حرف جن کی صفت آبی بیان کی گئی
 ہے۔ یعنی۔ ح۔ ذ۔ ک۔ س۔ ق۔ ث اور ظ۔

آب

آب [ع۔ ص] (۱) خود۔ اپنی ذات سے (۲) ذاتِ خفا (۳) روح۔ آتما (۴)
 غائب اور حاضر کے لیے تعظیفاً مستعمل ہوتا ہے۔
 آب آب (گرمنا کہتا) (۱) محاورہ) خوشامد کرنا۔
 آب آب کو (۱) متعلق فصل) اپنے اپنے نفس کو، اپنی اپنی ذات کو اپنی
 اپنی تہ۔ اپنی اپنی طرف۔
 آب آب میں (۱) متعلق فعل) آپس میں۔
 آب آب ہی میں اور وہ وہی (مثل) [آب میں اور اس میں بڑا فرق ہے۔
 آب آئے بھاگ آئے (۱) مثل) آب کا آنا باعث برکت ہے۔
 آب اپنی مٹر کھودنا (۱) محاورہ) اپنی بربادی کا آب سامان کرنا۔
 آب اپنی ہی گانے میں (۱) مثل) آب اپنی ہی کہے جاتے ہیں۔
 آب اپنے حال میں اگر فساد ہوتا خود اپنی مصیبت یا فکر میں مبتلا ہونا۔
 آب اپنے حق میں کانسنے ہونا، آب اپنے پاؤں پر کھلاڑی مارنا)
 اپنے ہاتھوں آب مصیبت پیدا کرنا۔
 آب اپنے سے۔ خود اپنی ذات سے۔
 آب اپنے کو۔ خود اپنی ذات کو۔
 آب اپنے آب ویسے۔ خوشامد کی باتیں۔
 آب بھلے تو جگ بھلا (۱) مثل) انسان خود اچھا ہو تو دنیا اس کے ساتھ
 اچھا برتاؤ کرتی ہے۔
 آب بھی اسطو سے کم نہیں (۱) مثل) (۱) آپ بھی بڑے عقل مند ہیں (۲)
 (ظن) (۱) آپ بڑے بے وقوف ہیں۔
 آب بیتی۔ اپنی کہانی۔ اپنا حال خود نوشت حالات زندگی۔
 آب بیتی کہوں یا جگ بیتی (۱) مثل) اپنی کہانی سناؤں یا دنیا کی۔
 آب کو عید کا چاند ہو گئے (۱) محاورہ) بہت کم نظر آتے ہیں۔ درست سے
 بطور شکریت کہا جاتا ہے۔

آپ سے گیا جگ سے گیا ۱۱۔ مثل آپ سے گیا جہاں سے گیا۔ جو چیز اپنے ہاتھ گئی وہ گویا دنیا ہی میں نہیں رہی۔
آپ فصیحیت اور کو نصیحت ۱۱۔ مثل) دوسرے کو نصیحت کرنا اور خود اس پر عمل نہ کرنا۔

آپ کا باپاں قدم لیجے پلنگ (آپ بہت چالاک ہیں۔ کسی کی عیاری اور چالائی کے موقع پر کہا جاتا ہے۔

آپ کا پاس ہے ۱۱۔ محاورہ) آپ کے لحاظ سے مجبور ہوں
آپ کا ج ما کا ج ۱۱۔ مثل) اپنا کام اپنے ہاتھ سے ہی اچھا ہوتا ہے۔
آپ کا سر۔ بد فیضی اور کسی کے کم سمجھنے کے موقع بولتے ہیں غلط کہتے ہیں۔ بیکار لے ہو رہے ہوتے ہیں۔

آپ کا قطع کلام (سخن) ہوتا ہے ۱۱۔ محاورہ) کسی کے بات کرنے وقت درمیان میں بولنے کے موقع پر کہا جاتا ہے۔ آپ کی بات کاٹتا ہوں۔

آپ کا کیا بگڑتا ہے ۱۱۔ محاورہ) آپ کا کیا جاتا ہے۔ آپ کا کیا نقصان۔
آپ کا کیا لیتا ہے ۱۱۔ محاورہ) آپ کا کیا نقصان کرتا ہے۔

آپ کا گھر ہے۔ تواضع اور خاطر کے موقع پر بولتے ہیں یعنی آپ اپنا ہی گھر سمجھیے۔ خانہ بے تکلف ہے۔

آپ کا منہ ملاحظہ ہے ۱۱۔ محاورہ) آپ کا لحاظ ہے ۱۱۔ آپ کی مجال ہے۔
آپ کا نام ہو گا ہمارا کا نام ہو گا ۱۱۔ مثل) آپ کی شہرت ہو گی ہمارا مطلب حاصل ہو جائے گا۔

آپ کا کوئی نہیں بیگانوں کا نوکر نہیں ہوں ۱۱۔ مثل) آپ کی باں میں ہاں ملانا ہوں۔ آپ جو کہہ سکتے ہیں اس کی تائید کرتا ہوں۔ مجھے جھوٹ و سچ سے کوئی مطلب نہیں۔

آپ کو آسمان پر بھیجتا ۱۱۔ محاورہ) غرور و تکبر کرنا۔ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا۔
آپ کو کھینچنا۔ اپنی حیثیت کو بھولنا۔ بے خود ہونا۔ اترانا۔

آپ کو بانا (پہنچنا) اپنی حقیقت کو سمجھنا۔
آپ کو خاک میں ملانا ۱۱۔ محاورہ) اپنا آپ تنہا۔ اپنے آپ کو تباہ کرنا۔
آپ کو دور جاننا سمجھنا۔ غرور و تکبر کرنا۔ تمام لوگوں سے الگ تھلگ رہنا۔

آپ کو ڈوبنا۔ اپنے آپ کو تباہ کرنا۔
آپ کو زدن کرنا۔ اپنے آپ کو قتل میں رکھنا۔ کسی کام کے کرنے سے باز رہنا۔
آپ کو شاخ زعفران (جاننا) سمجھنا یا لگنا۔ اپنی ذات کو سب سے نرالا سمجھنا۔ زیاد مغرور ہونا۔

آپ کو عرش پر پہنچانا ۱۱۔ اپنے آپ کو بہت زیادہ بلند سمجھنا ۱۱۔ اپنی بے حد تعریف کرنا۔

آپ کو مٹا دینا ۱۱۔ اپنے آپ کو برباد کر دینا۔ فنا کر دینا ۱۱۔ سخت محنت کرنا۔
آپ کھائے گی کو مٹائے۔ ۱۱۔ مثل) اپنی عقلی دوسروں کے سر رکھتے۔

آپ کی بل سے۔ آپ کو کبڑا۔ آپ سے کیا مطلب۔ آپ سے واسطہ نہیں۔
آپ کی دال یہاں نہ ملے گی ۱۱۔ مثل) آپ کا داؤ یہاں نہ چلے گا۔

آپ کی شکایت میرے سر آکھوں پر ۱۱۔ مثل) آپ کا شکوہ یا اعتراض نہایتا ہوں۔

آپ کی کیا بات ہے۔ آپ کے کیا کہنے ہیں۔ آپ نہایت قابل تعریف

آپ تو گرم کر کے شہرت پلاتے ہیں ۱۱۔ مثل) آپ کو مجھار کر دیکھا کرنا خوب آتا ہے۔

آپ تو ہوا کے ٹھوڑے پر سوار ہیں ۱۱۔ مثل) آپ بہت جلدی میں ہیں۔
آپ بہت نصی میں ہیں۔

آپ چائیں اور آپ کا ایمان ۱۱۔ مثل) صحیح فیصلہ کرنا آپ کی دیانت پر موقوف ہے۔

آپ جانے اور آپ کا کام ۱۱۔ محاورہ) آپ اپنے نیک و ہدے کے خود ذمے دہا
آپ خود ارے آپ مراد ہے ۱۱۔ مثل) اٹھل کھرا۔ اپنی غفلت کو بہتر سمجھنے والا
(۲) عربی میں امیرانہ ٹھکانے سے رہنے والا۔

آپ خودی۔ خود سری۔ ضد۔ سرکشی۔ (اق)
آپ دھاب۔ اپنی اپنی فکر۔ اپنے اپنے کام کا دھیان۔

آپ ڈال ڈال میں تو میں پات پات ۱۱۔ مثل) میں تم سے زیادہ ہوشیار اور چالاک ہوں۔

آپ ڈوبے تو جگ ڈوبا ۱۱۔ مثل) آپ مر گئے تو گو باساری دنیا ختم ہو گئی
آپ ڈوبے تو ڈوبے اور کو بھی لے ڈوبے ۱۱۔ مثل) اپنے ساتھ دوسرے کو بھی مصیبت میں پھنسا دیا۔ اپنے ساتھ دوسرے کو بھی برباد کر دیا۔

آپ راہ راہ، دم کھیت کھیت ۱۱۔ مثل) اظہار میں نیک اور باطن میں مکر
آپ روپ۔ اپنی شکل۔ اپنا ظہور۔ خدا اور اس کی کھلی۔

آپ روپ ہمارو ۱۱۔ مثل) خدا کا جلوہ سب سے اعلیٰ ہے۔ (۲)
کسی کامل فیکر کو کہتے ہیں یعنی آپ کا جلوہ خدا کا جلوہ ہے۔

آپ زندہ جہاں زندہ، آپ مر رہا جہاں مر رہا ۱۱۔ مثل) جی ہے تو جہاں ہے۔
اپنے دم کا سب کا رخا نہ ہے۔ اپنی آنکھ بند ہو گئی تو ہوا نہ ہوا ہر جگہ ہے۔

آپ سنیں اپنا گم نہ سنئے ۱۱۔ مثل) بہت آہستہ سے بات کرنے والا۔
آپ سے ۱۱۔ بغیر مانگے۔ از خود۔ خود ہی۔ بلا سبب (۲) بے طلب بے بلائے

آپ کی مانند۔
آپ سے آپ۔ خود بخود۔ بلا سبب۔

آپ سے لے لے تو آنے دے۔ کسی کا مال بغیر کوشش کے ہاتھ لگے تو لے لو۔
آپ سے اچھا خدا ۱۱۔ مثل) اپنی ذات سے زیادہ عزیز سولے خدا کے کوئی نہیں (۲) آپ سے برتر خدا کی ذات ہے۔

آپ سے بے آپ ہونا ۱۱۔ محاورہ) بے خود ہونا۔ بہت بے چین ہونا۔
آپ سے جانا ۱۱۔ بے ہوش ہونا بے خود ہونا۔ (۲) بن بلائے جانا۔

آپ سے چار برس سا میں نے زیادہ دیکھی ہیں ۱۱۔ مثل) (۱) میں عمر میں آپ سے بڑا ہوں (۲) میں آپ سے زیادہ تجربہ کار ہوں۔

آپ سے چلنا ۱۱۔ مثل) بے خود ہو جانا۔
آپ سے دور۔ اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں مخاطب کی نسبت بڑی بات

کہنا بے جا سمجھا جاتا ہے۔
آپ سے دور آپ کی جان سے دور ۱۱۔ مثل) آپ کو نقصان نہ پہنچے

آپ سے گزرنے ۱۱۔ محاورہ) (۱) بے خود ہو جانا (۲) انسانیت سے گزرنا
آدمیت سے گزرنے ۱۱۔ اپنی حیثیت کو بھول جانا (۲) مغرور ہو جانا۔

ہیں آپ تو بہت قابل تعریف کام کرتے ہیں۔ طنزاً بھی کہا جاتا ہے۔
 آپ کی یہاں کچھ نہ چلے گی۔ آپ کا یہاں زور نہیں چلے گا۔
 آپ کے دشمن اس وقت کہتے ہیں جب مخاطب کو کسی بُری بات سے
 منسوب کرنا نہیں چاہتے۔ جیسے کوڑا لیا جائے تیرے دشمن۔
 آپ کے منہ کا اُکال ہمارے پیرٹ کا ادھار ۱۱۔ مثل: آپ کے لگے
 کا بچا ہوا ہمارے لیے کافی ہے۔ مالدار کی ادنیٰ توجہ سے غریب کا بھلا
 ہو جاتا ہے۔

آپ کیا گانتے ہیں ۱۱۔ محاورہ: آپ کی بات سمجھ میں نہیں آتی۔
 آپ مرے جگ (جہان) پر لو ۱۱۔ مثل: خود مر گئے تو دنیا ہی تم ہو گئی۔
 آپ میاں صوبے دار گھر میں ہوی جھونکے بھلا ۱۱۔ مثل: مفلسی
 میں بیٹے پختے رہنا۔ ظاہر ہیں دولت مند اصل میں مفلس۔
 آپ میں۔ اپنے ہوش میں۔
 آپ میں آنا۔ ہوش میں آنا۔

آپ میں پانا۔ اپنے نفس میں پانا۔ اپنی ذات میں حاصل ہو جانا۔
 آپ میں کیا شاخ زعفران لگی ہے ۱۱۔ مثل: آپ میں ایسی کیا خصوصیت
 آپ میں نہ رہنا ۱۱۔ محاورہ: ہوش و حواس کھو دینا۔
 آپ میں نہ سمانا بے خود ہو جانا۔ بہت خوش ہونا۔
 آپ میں نہ ہونا بے خود ہونا۔ ہوش میں نہ ہونا۔

آپ نے مجھے مولے لیا ہے ۱۱۔ مثل: آپ نے مجھ پر اتنی زیادہ مہربانی
 کی ہے گویا خرید لیا ہے۔ آپ نے مجھ پر بے حد احسان کیا ہے۔
 آپ ہارے ہو گویا مارے ۱۱۔ محاورہ: اپنی خفت دوسرے پر آنا۔
 آپ ہر فن مولیٰ ہیں ۱۱۔ محاورہ: آپ بہت ہوشیار ہیں۔
 آپ ہی آپ۔ اپنی آپ۔ خود بخود۔ بلا وجہ۔ بلا سبب
 آپ ہی آپ بائیں کرنا۔ ۱۱۔ محاورہ: خود سے بائیں کرنا۔ پاگلوں کی طرح
 خود بخود بولے جانا۔

آپ ہی آپ جلینا۔ خود بخود رنج سے گھٹا جانا۔ رشک کرنا۔
 آپ ہی اپنی قبر کھودنا۔ اپنے ہاتھوں اپنی بربادی کے سامان کرنا۔
 آپ ہی بی بی آپ ہی باندی ۱۱۔ مثل: وہ خاتون جو سارے گھر کے کام
 خود ہی کرتی ہو۔ مراد: ایسی گھر میں تنہا۔
 آپ ہی کا کھاتا ہوں ۱۱۔ مثل: آپ ہی کے دیے ہوئے سے سیر کرتا ہوں۔
 آپ ہی کی جوتیوں کا حد قریب ہے ۱۱۔ مثل: آپ ہی کی بدولت ہے۔
 آپ ہی ماسے آپ ہی چلائے ۱۱۔ مثل: خود ہی ظلم کرے اور خود
 ہی مظلومان فریاد کرے۔

آپ ہی ناک چوٹی میں گرفتار ہیں ۱۱۔ مثل: گھر کے دھندوں میں
 مصروف ہیں۔ دنیا کے بھٹیوں میں مبتلا ہیں (۲) اڑے نازک مزاج ہیں
 آپ ہیں۔ کلمہ تعجب۔ کسی شناسا کو یگانگ یا شک کے بعد پہچانتے پر
 بولتے ہیں۔
 آپا (آ۔ پا) ۱۰۔ مٹ [۱۱] اپنی اصلیت۔ ہستی خودی (۲) ہوش و حواس
 سُدھ بڈھ (۳) بڑی بہن باجی
 آپا اماں۔ بڑی بہن کو ادب سے کہتے ہیں۔

آپا (جان) اجانی۔ بڑی بہن کو ادب سے بیکارنے کا اندازہ۔
 آپا تجھے سو نہر کو بھجھے ۱۱۔ مثل: اپنے آپ کو مٹا کر ہی خدا ملتا ہے۔
 آپا دھپلی۔ اپنی اپنی نگر۔ اپنی اپنی لگن۔ خود غرضی۔
 آپٹرفون (Optophone) آپ۔ ٹو۔ فون [انگ۔ ۱۔ نڈ] آکر صدانا
 ایک آدھوروشی کو آواز میں بدل دیتا ہے۔ اس کی مدد سے اندھے کان
 سنے ذریعے سے پڑھ سکتے ہیں

آپریٹر (Operator) آپ۔ رے۔ ٹر [انگ۔ ۱۰۔ نڈ] مشین چلانے والا
 آپس۔ آپس [۱۰۔ مٹ] [۱۱] ایک دیگر۔ باہم (۲) رشتہ داری۔
 قربت۔ ناتا۔ میل جول۔ یک جہتی۔
 آپس داری۔ رشتہ داری۔ قربت۔ ناتا۔
 آپس کا معاملہ۔ باہمی معاملہ۔
 آپس کا واسطہ [۱۰۔ نڈ] قربت کا تعلق۔ واہ درہم کا علاقہ۔ میل جول کی
 خصوصیت۔

آپس کی بات چیت۔ باہمی گفتگو۔ گھر کا معاملہ۔
 آپس کی بھڑک۔ باہمی نا اتفاق۔
 آپس کی گفتگو۔ باہمی بات چیت۔
 آپس میں [۱۰۔ نڈ] تعلق [۱۱] ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ داری میں
 آپس میں رہنا [۱۱۔ محاورہ] مل جل کر رہنا۔ اتفاق کے ساتھ رہنا۔

آپس میں یک دل ہونا۔ باہم متفق ہونا۔
 آپستا (آپس۔ تا) [۱۱] صفت [خود دار۔
 آپستینا (آ۔ پ۔ بچ۔ نا) [۱۰۔ مٹ] بچ جانا پکڑ لینا۔ منزل طے کرنا۔
 آپھنستا (آ۔ بھن۔ نا) [۱۰۔ مٹ] فرب میں آنا۔ دھوکا کھانا۔ گرفتار ہونا۔
 اتفاق سے گرفتار ہونا۔ اجانگ گھر جانا۔
 آپتچ (اق۔ ص) آپ۔ خود۔ خود ہی۔

آپے سے باہر ہو جانا [۱۱۔ محاورہ] بے خود ہو جانا۔ غصہ میں بے خود ہو جانا۔
 آپے سے جانا [۱۱۔ محاورہ] قابو میں نہ رہنا۔ حواس کھو دینا۔
 آپے سے گزر جانا [۱۱۔ محاورہ] بے حد غصہ آنا۔
 آپے سے نکلنا [۱۱۔ محاورہ] آپے سے باہر ہو جانا۔
 آپے میں آنا [۱۱۔ محاورہ] ہوش میں آ جانا۔
 آپے میں نہ رہنا [۱۱۔ محاورہ] آپ میں نہ رہنا۔ زیادہ غور کرنا۔
 آپے میں نہ ہونا [۱۱۔ محاورہ] آپ میں نہ ہونا (۲) سخت غصہ آنا۔

آت

آت: بعض کلمات میں بطور لاحقے کے استعمال ہو کر مصدری فائدہ
 دیتا ہے جیسے ہنات۔ برسات۔
 آتا (آ۔ تا) [۱۰۔ نڈ] (ماضی تہائی) آنے والا (۲) قرض
 آتا جانا [۱۱] ہمارت۔ مشتق [۲] آنے جانے والا۔ مسافر۔
 آتا نہ چھوڑے جانا نہ موڑے۔ جو چیز آدھی ہو اسے چھوڑنا نہ چاہیئے۔
 ادگئی ہوئی چیز کا علم نہ کرنا چاہیئے۔

آتے آتے متعلق فعل پہنچنے پہنچنے چلتے چلتے آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ آتے آتے پھر جانا (۱) محاورہ (۱) راستے سے لوٹ جانا۔ راہ سے واپس ہوجانا (۲) آزاد بدل جانا۔ آتے بھلے نہ جلتے (۱) مثل) آنا جانا برابر ہے۔ آتے جاتے اسم حالیہ آنے جلنے میں۔ چلتے پھرتے۔ راہ چلتے۔ راہ لگی میں آتے کا منہ دیکھتی نکلی جاتے کی جگہ (۱) مثل ابے جینی سے انتظار کرتی تھی آتھس (۱) آتش (۱) آگ۔ مرث (۱) آگ۔ نار۔ جلن۔ سوزش (۲) آرد کے مشہور شاعر خواجہ حیدر علی لکھنوی کا تخلص۔ آتھس افزور ات۔ صف آگ بھڑکانے والا۔ آتھس انہرہ ات۔ صف وہ آگ جس میں شعلہ نہ ہو۔ مرجھائی ہوئی آگ۔ آتھس انجیز ات۔ صف آگ بھڑکانے والا۔ آتھس بار ات۔ صف آگ برسانے والا۔ آتھس بازی ات۔ صف آتش بازی بنانے والا۔ آتھس بازی ات۔ مرث آگ کا کھیل (۲) پھلپڑی۔ مثنائی وغیرہ جو گندھک اور کوئلے وغیرہ سے بنی ہیں اور آگ لگا کر تماشہ دیکھتے ہیں۔ آتھس بیان ات۔ صف اتیز۔ شعلہ بیان۔ وہ مفرحس کی تفریح سے سامعین کے دلوں میں جوش اور دلولہ پیدا ہو۔ آتھس رما روو ات۔ صف (۱) شراب (۲) سورج (۳) غصہ (۴) بلا دھونیں کی آگ۔ آتھس پات ات۔ صف بے قرار۔ مضطرب۔ تیز رفتار۔ آتھس پرست ات۔ صف آگ پوجنے والا۔ پارسی۔ زرتشت کو ماننے والا۔ آتھس پیچکر جن۔ آفتاب۔ بھوت۔ شیطان۔ آتھس تیر ات۔ مرث اشترب۔ آتھس جاں سوز ات۔ مرث عشق کی گرمی۔ جان کو جلانے والی آگ۔ آتھس خاموش۔ بگھی ہوئی آگ (۲) خاموش گرمی مراد محبت۔ آتھس خانہ ات۔ مرث آتھس پرستوں کا عبادت خانہ جہاں ہر وقت آگ جلتی رہتی ہے۔ آتھس خوات صف اخضر در۔ تیز مزاج۔ غصے والا۔ آتھس خوار ات۔ صف (۱) آگ کھانے والا (۲) ایک جانور کا نام جو دوڑتا آگ کھاتا ہے (۳) ظالم۔ رشوت خور۔ آتھس دان ات۔ مرث آگ جلانے کی جگہ۔ چوڑھا۔ بگلیٹھی۔ آتھس درو ات۔ مرث اندر کی آگ۔ محبت۔ سوز و گداز۔ آتھس دل ات۔ مرث دل کی آگ۔ سوز و گداز۔ آتھس لبخ ات۔ صف اُسرخ چہرے والا۔ لال رنگ والا معشوق (۲) غصہ ور۔ آتھس رنگ۔ آگ کے رنگ کا۔ سُرُخ بھھوکا۔ آتھس زبان ات۔ صف اشعلہ بیان۔ اپنے بیان سے طبیعتوں کو گم کرنے والا۔ بمرجوش تفریح کرنے والا۔ آتھس زبانی ات۔ مرث آگ لگانا۔ تیز بیان دینا۔ آتھس زردی ات۔ مرث آگ لگانا۔ آتھس زرتشت۔ وہ آگ جو آتش پرستوں کے رہنما زرتشت کے آتش کدے

میں تھی۔ آتھس زنی (۱) آگ لگانا۔ (۲) فساد کرنا۔ آتھس زریا ات۔ صف بے قرار۔ بے چین۔ مضطرب۔ آتھس زنگ ات۔ مرث چنگاری جو پتھر میں پوشیدہ رہتی ہے اور کسی پتھر کے ٹکرانے سے ظاہر ہوتی ہے۔ آتھس نیال ات۔ مرث ابھتی ہوئی آگ (۲) شراب (۳) حمال کھلی کالا۔ آتھس سینہ۔ سینے کی آگ۔ دل کی آگ۔ اندک آگ۔ اندر کا دکھ۔ آتھس طبع ات۔ صف اخضر در۔ تیز مزاج۔ آتھس طور ات۔ مرث وہ آگ جو طور پہاڑ پر حضرت موسیٰ کو نظر آئی تھی۔ آتھس عنان ات۔ صف اتیز چلتے والا۔ تیز رو۔ آتھس فارسی۔ آتشک کی بیماری۔ آتھس نشان ات۔ صف آگ برسانے والا۔ شعلے اور جگاریاں چھڑانے والا۔ آتھس نشان پہاڑ ات۔ مرث آگ جو اٹھی پہاڑ۔ وہ پہاڑ جس کے دہانے سے آگ نکلے۔ آتھس قدم ات۔ صف (۱) آگ جیسے ندم والا (۲) گرم رو۔ تیز قدم تیز چلنے والا۔ آتھس کا پیر کالہ ات۔ صف (۱) آگ کا ٹھوس (۲) چالاک۔ ہوشیار۔ تیز شوخ (۳) شریر۔ مضطرب۔ آتھس کبریت (۱) گندھک کی آگ۔ (۲) دیاسلاٹی۔ آتھس کدہ ات۔ مرث وہ عمارت جہاں آگ کی پرستش ہوتی ہے آتھس پرستوں کا معبد۔ آتھس گیر ات۔ صف جلدی آگ پکڑنے والی۔ جلد بھڑک اٹھنے والی اجیرا (۲) چٹا۔ دست پناہ۔ آتھس گیر مادہ ات۔ مرث (۱) صف بھک سے اڑ جانے والا مادہ۔ جلدی آگ پکڑنے والا مادہ۔ آتھس مزاج ات۔ صف آگ جیسے مزاج والا۔ جھللا۔ تیز مزاج۔ تند خو۔ آتھس ناگ ات۔ صف آگ سے بھرا ہوا۔ نہایت گرم۔ آتھس نمرود ات۔ مرث وہ آگ جو نمرود نے حضرت ابراہیم کو زندہ جلانے کے لیے روشن کی تھی اور جو خدا کے حکم سے چمن بن گئی۔ آتھس (آت۔ نیک ات۔ مرث) ایک جنسی بیماری۔ گرمی۔ آتھس لگانا۔ ایک سے دوسرے کو آتشک کی بیماری لگانا۔ آتھس (آت۔ نیک ات۔ نیک ات۔ مرث) ایک جنس کو آتشک کی تیز بیماری ہو۔ آتھس (آت۔ نیک ات۔ نیک ات۔ مرث) ایک سے نسبت رکھنے والا۔ آگ سے بنا ہوا (۲) گرم مزاج۔ آتھس اینٹ ات۔ مرث (۱) ایسی اینٹ جو آگ کی انتہائی تپش سے بھی متاثر نہیں ہوتی۔ پیر اینٹ کیمیائی مرکبات سے بنائی جاتی ہے۔ آتھس شیشہ ات۔ مرث (۱) صفت تیز شیشہ جس کے ذریعے چھوٹی لٹیریں بڑی دکھائی دیتی ہیں (۲) اس کو سورج کے سامنے رکھنے سے سورج کی کرنیں اس میں جمع ہوجاتی ہیں اور نیچے رکھے ہوئے کپڑے کو آگ لگ جاتی ہے۔

آرتشی شیشی (ف) ۱۔ مرث ایک خاص قسم کی شیشی جس کے ذریعہ روغن کھینچتے اور جوہر اڑتے ہیں۔
 آرتشیں (آرت۔ شیشیں) [ن۔ صف] آگ جیسا۔ آگ کی طرح گرم۔ آگ کی طرح سرخ
 آرتشیں رُخ (رخسار) آگ کی طرح دکھتا چہرہ۔ آگ کی طرح دیکھنے ہوئے کمال
 آرتما (آرت۔ ما) [س۔ ۱۔ مرث] (۱) دل۔ روح۔ وجود (۲) پیٹ۔ معدہ۔
 (۳) جھوک (۴) مانتا۔ محبت۔
 آرتما کھنڈی کرنا (۱) محاورہ اہمی خوش کرنا۔ بھوکے کا بیٹ بھرنے کا۔ مسکھ بھینچانا۔
 آرتما ستانا (۱) محاورہ اہمی دکھانا۔ دل آزادی کرنا۔
 آرتما کا کوسنا۔ دل سے بددعا کا کھلنا۔
 آرتما کا کلیانا (۱) محاورہ اہمی دکھانا۔
 آرتما کلیانا (۱) محاورہ اہمی دکھانا۔
 آرتما کی آویج (۱) مرث، مال باپ کی محبت۔
 آرتما مسوسن (۱) محاورہ) مانتا اور محبت کو ضبط کرنا۔
 آرتما میں آگ لگی ہے (۱) محاورہ (۱) بہت جھوک لگی ہے (۲) محبت کی آگ بہت تیز ہے۔
 آرتما میں بڑے کو پر ماتمی سوچھے (۱) مثل اپیٹ میں روٹی پڑتی ہے تو خدا بھی یاد آتا ہے۔
 آرتوں آرتوں (۱) توہ آرتوں [ت۔ مرث] آرتستانی۔ لڑکیوں کو پرستنا لکھنا سکھانے والی۔
 آرتی پاتی (آرتی۔ پاتی) [۱۔ مرث] ایک کھیل جس میں بہت سے لڑکے جمع ہو کر ایک لڑکے کو چور بناتے ہیں۔ اسے کسی بیڑ کی پتی لینے بیچنے میں اس کے چلے جانے پر سب لڑکے چھپ جاتے ہیں۔ پتی لے کر لوٹ آتے پر وہ لڑکا جس کو ڈھونڈ کر کھڑ لیتا ہے وہ چور کہلاتا ہے۔ اس لڑکے کو کبھی اسی طرح پتی لینے جانا پڑتا ہے۔ یہ کھیل عام طور پر چاندنی راتوں میں کھیلا جاتا ہے۔
 آرتی ہے ہاتھی کے پاؤں اور جاتی ہے چیونٹی کے پاؤں [۱۔ مرث] [ش] بڑی تیزی سے آتی ہے اور دھیرے دھیرے جاتی ہے۔ عموماً بھولی کے متعلق کہتے ہیں۔

آرٹا دل اٹو بھی ہے (۱) مثل (۱) اچھائیوں کے ساتھ برائیاں بھی ہیں (۲) بے جوڑ بات کہتے وقت یہی بولتے ہیں (۳) بڑی چیز سے لے کر معمولی چیز تک موجود ہے۔
 آرٹا کر دینا۔ بہت باریک پس ڈالنا۔
 آرٹا کیلنا ہوتا (۱) آٹے میں پانی زیادہ پڑ جانا (۲) وقت پڑنا۔ کام بگڑنا۔ مشکل میں پڑنا۔ حیران ہونا۔
 آرٹا مانی ہونا۔ خراب ہونا۔ ستیاناس ہونا۔ زن۔
 آرٹا نبطا ابو چارٹکا [۱۔ مثل] [مطلد غریب ہوگی تو مہفت خوردے غائب ہو گئے۔
 آرٹا نہیں تو دل یا جب بھی ہو جائے گا۔ (۱) مثل اٹھوڑا بہت فائدہ ضرور ہوگا
 آرٹا ہو جانا (۱) باریک ہو جانا (۲) ٹوٹ پھوٹ جانا (۳) کھن گک مانا۔ سڑ جانا۔
 آٹے وال کا بھاؤ تننا (۱) محاورہ) تنبیہ کرنا۔ خوب خیر لینا۔ دھمکانا۔
 آٹے وال کا بھاؤ کھلنا (۱) آٹے وال کا رخ معلوم ہونا (۲) ذلیکے نشیب و فراز معلوم ہونا۔ حقیقت معلوم ہونا۔
 آٹے وال کا بھاؤ معلوم ہونا (۱) محاورہ) قدر عایت معلوم ہونا۔ اونچ نیچ کا پتہ چلنا۔
 آٹے دل کی فکر۔ روزی کی فکر۔
 آٹے کا چراغ، گھر رکھوں تو چوہا کھائے، ہاں رکھوں تو گوڑے چلے [۱۔ مثل] ایسی بات جس میں ہر صورت میں نقصان ہو۔
 آٹے کی آیا (۱) مثل) بھولی بھالی عورت، بے وقوف عورت۔
 آٹے کی مٹی ہے (۱) مثل) بظاہر خوب ناک ہے لیکن حقیقت کچھ نہیں۔
 آٹے کے ساٹھ کھن پسنا (۱) محاورہ) گناہ گار کے ساتھ بے گناہ کو سزا ملنا۔
 آٹے میں نمک (۱) مثل) بہت نظروں۔ ذرا سا۔ واجبی سا۔ معمولی سا۔
 آٹم یا ٹم (آٹم، یا ٹم) [۱۔ ہر جگہ۔ اوپر نیچے۔
 آٹما (آٹ۔ نا) [۱۔ مص] دبانا۔ بند کرنا۔ بھرنے پر کرنا۔
 آٹوگراف (Autograph) (آ۔ ٹو۔ گراف) [انگ۔ ۱۔ نڈ] اپنے ہاتھ کی تحریر۔ خصوصی دستخط۔
 آٹوٹیک (Automatic) (آ۔ ٹو۔ سے ٹیک) [انگ۔ صف] دیکھیے خود کار۔
 آٹھ (۱) صف) سات اور ایک۔ چار کا ڈگنا۔
 آٹھ آنسو رونا (۱) محاورہ) اچھوٹ پھوٹ کر رونا۔ بہت رونا۔
 آٹھ اٹھارہ کرنا (۱) محاورہ) پریشان کرنا۔ تتر بتر کرنا۔ متفرق کرنا۔ پرانگہ کرنا۔
 آٹھ بار تو توبہ مار (۱) مثل) عیش پروری کے اظہار کے لیے کہتے ہیں کہ آٹھ دن میں نویسے مناتے ہیں۔
 آٹھ پہر (۱) روزمرہ) (۱) چوبیس گھنٹے، ایک دن رات (۲) ہر وقت ہر لمحہ
 آٹھ پہر جو نستھ گھڑی (۱) مثل) رات دن چوبیس گھنٹے۔ ہر وقت۔
 آٹھ پہر سوئی ہے (۱) مثل) ہر وقت بلا کا سامنا ہے۔
 آٹھ پہر میان سے باہر رہنا (۱) مثل) ہر وقت بڑنے پر مستعد رہنا۔
 آٹھ جولی ہے لوتھے، برس پر بھی دھکم دھکے (۱) مثل) ضرورت سے زیادہ سامان ہونے پر بھی جھگڑنا۔

آرٹ

آرٹ (ن) آٹھ [۱] بھرے۔ پر گروے۔
 آرٹا (آ۔ ما) [۱۔ ۱۰۔ ۱۱] [نڈ] (۱) پسا ہوا غلہ (۲) خشک پسی ہوئی چیز (۳) بوسیدہ
 فرسودہ۔ گلہ ہوا کھن لگا ہوا۔ گھسا ہوا (۴) کسی چیز کا چورن۔ بربادہ۔
 آرٹا کر دینا (۱) محاورہ) بہت باریک کر دینا۔ چور کر دینا۔ سفوف کرنا۔
 سڑ برباد دینا۔
 آرٹا ہو جانا (۱) محاورہ) بہت باریک ہو جانا پس جانا (۲) اگل جانا کھن لگ جانا۔ بوسیدہ ہو جانا۔
 آرٹا وال۔ کھانا۔ رزق۔ روزی۔

آج (ع۔ صف) عاصی۔ گناہ گار۔

آج

آج ۵۱۔ صف (۱۱) جودن گزرتا ہو۔ (مروز (۱۲) ان دنوں۔ اس وقت (۱۳) میں حیات۔ موجودہ زمانہ (۱۴) وقت حاضر۔
 آج آٹھ کل چلے ۱۱۔ مثل جلدی جانا۔ ممان کام ٹھہرنا۔
 آج برس کے پھر نہ برسوں کا ۱۱۔ مثل بہت زور کی بارش ہونا۔
 آج تک (متعلق فعل) اب تک۔ اس وقت تک۔ آج کے دن تک۔
 آج تک پڑے ہینک ہگ رہے ہیں ۱۱۔ مثل اس وقت کہتے ہیں جب کوئی اپنی بد اعمالیوں کی سزا بھگت رہا ہو۔ یعنی اب تک مصیبت میں مبتلا ہے۔

آج جو کرنا ہے کر لے، کل کی کل کے ہاتھ ہے ۱۱۔ مثل آج عمل خیر کر لے کیونکہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔
 آج زمان نکلی ہے کل بند ۱۱۔ مثل زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔
 آج سے (متعلق فعل) اب سے۔ اس وقت سے۔

آج سے کل نزدیک ہے ۱۱۔ مثل جب کوئی آنے والے زمانے کو دیکھ کر کام میں سستی کرے تو کہتے ہیں کہ آنے والا وقت بہت جلد آجائے۔
 آج صبح کس کا منہ دیکھا ہے ۱۱۔ مثل سارا دن پریشانی آنے کے موقع پر کہتے ہیں کہ صبح کس منہ کو دیکھ لیا ہے۔
 آج کا دن۔ موجودہ دن۔

آج کا کام آج ہی کرنا چاہئے ۱۱۔ مقولہ کام دوسرے وقت پر ملانا غلط ہے۔
 آج کا کام کل پر (اٹھار گھنٹا) ملانا یا چھوڑنا۔ کام کرنے میں سستی کرنا۔
 مثال مٹول کرنا۔ ملتوی کرنا۔

آج کدھر بھول پڑے ۱۱۔ محاورہ (۱) چانک کس طرح آگے ہے
 آج کدھر جانہ نکلا ۱۱۔ محاورہ (۱) آج کس طرح آنے کا موقع مل گیا۔
 آج کیسے کا گل پائے گا ۱۱۔ مثل کیسے کا پھل ضرور ملتا ہے

آج کل ۱۱۔ محاورہ (۱) ان دنوں۔ اس وقت۔ عن قریب۔ بہت جلدی (۲) جیلہ حوالہ۔ مثال مٹول۔

آج کل ان کے دور دورے ہیں ۱۱۔ مثل آج کل ان کا بڑا عروج ہے یا عزت خوب بنی ہوئی ہے۔

آج کل بارہ برس کی بیٹیا ہر ملنے سے ۱۱۔ مثل آج کل زمانے سے شرم و جبا اٹھ گئی ہے۔ بارہ برس کی بچی بھی خاندان جاہلی ہے۔

آج کل تبتا ۱۱۔ محاورہ (۱) اٹاننا۔ نیت و عمل کرنا۔ وعدہ و عہد کرنا۔

آج کل تمہا سے نام کی کمان پر تھتی ہے ۱۱۔ مثل تیری کارنامہ ہے۔
 اقبال مندی کا دوسرے۔

آج کل کرنا۔ جھوٹے وعدے کرنا۔ ملانا۔

آج کل میں (تابع فعل) بہت جلد۔ عن قریب۔

آج کل نہ جانا ۱۱۔ محاورہ (۱) مکر و فریب سے باز نہ آنا۔

آج کے بیٹے کل کے سیٹھ ۱۱۔ مثل زمانہ کا انقلاب جو غریب تھا وہ

آٹھ گاؤں کا چودھری، بارہ گاؤں کا راؤ ۱۱۔ مثل کوئی آدمی خواہ اپنے کام نہ آؤ، تو ایسی تیسی میں جاؤ ۱۱۔ گناہی بڑا اور صاحب دساک ہوا اگر کسی کے کام نہیں آتا تو اس کا ہونا نہ ہونا برابر ہے۔

آٹھواں (آٹھ۔ واں) [۱۔ صف] (۱) ساتویں کے بعد (۲) کسی چیز کا آٹھواں حصہ (۳) حمل کا آٹھواں مہینہ۔

آٹھوں (آ۔ ٹھوں) [۱۔ صف] (۱) ہولی کا آٹھواں دن۔ آٹھ کے آٹھ۔
 آٹھوں پہر۔ چوبیس گھنٹے رات دن۔ ہر وقت۔

آٹھوں کا میلہ۔ ہولی کے آٹھویں دن ہندوؤں کا میلہ۔
 آٹھوں کا ٹھہر کیمت ۱۱۔ مثل (۱) وہ کیمت کھوٹا جس کے آٹھوں جوڑ

بہت مضبوط ہوں۔ (۲) شہریر۔ چالاک۔ عیبی۔ جرم زادہ۔ عیار۔ ہوشیار۔ مضبوط
 آٹھویں (آٹھ۔ ویں) [۱۔ صف] (۱) مینے کی آٹھویں تاریخ۔ گنتی میں سات کے بعد کا ہندسہ۔

آٹھویں ساتویں ۱۱۔ محاورہ (۱) کبھی کبھی۔ گاہے گاہے۔

آٹ

آٹا (۱) شمار (۲) ا۔ ندنا (۱۱) اثر کی جمع (۲) سنت رسول (۳) صحابہ کرام کے اقوال و افعال (۴) نیو۔ بنیاد (۵) دیوار کی چوڑائی (۶) سیر کے معنی میں (وزن کے لیے) (۷) اطار، طور طریقے (۸) علامات (۹) انداز۔ (۱۰) رتہ چھن (۱۱) نقوش۔ نشان۔

آٹا اچھے یا بڑے ہوتا ۱۱۔ محاورہ (۱) دھنگ اور علامتیں اچھی یا بُری ہونا۔

آٹا بانی ہونا ۱۱۔ محاورہ (۱) نشان رہ جانا۔
 آٹا بد (ع۔ ف۔ ند) بڑے مسکون بُری فال۔

آٹا بندھ جانا ۱۱۔ محاورہ (۱) علامتیں ظاہر ہونا۔ نشانیاں ظاہر ہونا۔
 آٹا بٹے جانا ۱۱۔ محاورہ (۱) علامتیں دکھائی دینا۔

آٹا بڑھنا ۱۱۔ محاورہ (۱) نیوڑنا۔ بنیاد قائم کرنا۔
 آٹا بھینا ہونا ۱۱۔ محاورہ (۱) علامت ظاہر ہونا۔

آٹا چھا جانا ۱۱۔ محاورہ (۱) علامات کا کثرت سے ظاہر ہونا
 آٹا خوش۔ آٹا قیامت۔ آٹا خوشتر (ع۔ ف۔ ند) قیامت کی نشانیاں۔

آٹا خوشتر (ع۔ ف۔ ند) اچھی علامتیں۔ نیکی کی نشانیاں۔
 آٹا دکھائی دینا۔ آٹا نظر آنا۔ دھنگ گھلنا۔ چھن ظاہر ہونا۔ علامتیں ظاہر ہونا۔

آٹا ڈالنا (رکھنا) نیو رکھنا۔ کام کا آغاز کرنا۔

آٹا شریف (ع۔ ف۔ ند) اولیاء اور انبیاء کے مزار نشانیاں اور تہذیب کا۔
 آٹا رصا دید (ع۔ ف۔ ند) بزرگوں اور بادشاہوں کی نشانیاں۔ قدیم نمازیں۔

آٹا ظاہر (عیاں) ہونا ۱۱۔ محاورہ (۱) آثار دکھائی کوینا۔ نشان پانا جانا۔
 علامت بانی جانا۔

آٹا (عینفص) قدیمہ۔ پرانے نشانیاں۔ کھنڈرات۔ ہولی تابہ نجی علامتیں
 آٹا منبر (ع۔ ف۔ ند) مقدس نشانیاں۔ بزرگوں کی یادگار ہیں۔

آٹا نیک۔ اچھے شکون۔ نیک فال۔ اچھی علامتیں۔

امیر ہو گیا۔
 آج کے تجھے آج ہی نہیں چلتے (۱)۔ مثل (کام ایک دم نہیں ہوتا۔ آہستہ آہستہ ہوتا ہے)۔
 آج کیا جانی دنیا دیکھی (۱)۔ مثل [بعد مدت کسی کے آنے پر کہتے ہیں یعنی آپ کو کیا خیال آگیا۔]
 آج کے دن۔ موجودہ دن۔ موجودہ زمانہ۔
 آج مرے کل دو سردار (۱)۔ مثل [زندگی بالکل نا پائدار ہے۔]
 آج میں، کل تو (۱)۔ مثل [سب کو مرنا ہے۔ موت سب کو آتی ہے۔]
 آج میں ہوں اور وہ ہے (۱)۔ مثل [کسی سے لڑنے کے لیے غصے اور لڑائی کا ارادہ کرنا۔]
 آج غصیبوں سے پانچ لگے ہو۔ اتفاق سے ملاقات ہوئی ہے۔
 آج ہمارے لیے کل تمہارے لیے (۱)۔ مثل [کسی کی خصوصیت نہیں۔ سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک ہونا چاہیے۔]
 آج بے سر کل نہیں (۱)۔ مثل [روز بروز حالت خراب ہے (۲) جو آج زندہ ہے کل مردوں میں ہوگا۔]
 آجبر (آج، آج)۔ (۱)۔ مذ [کام پر لگانے والا۔ اجرت پر کام لینے والا۔]
 آجئون (آج، جنون) (۱)۔ مذ [اب تک۔]

آج

آجیا۔ (آج) (۱)۔ مذ [۱]۔ باپ۔ دادا۔ نانا۔ بزرگ (۲)۔ پڑانا ملازم۔
 پوڑھی خادوم۔ دائی۔ آیا۔ تدبیری مانا۔
 آچار (آچار) (۱)۔ مذ [۱]۔ پھل یا ترکاری کا مرکب جو سرکہ تیل یا پانی میں مزج مصالح ڈال کر تیار کیا جاتا ہے۔ آچار۔
 آچار بنانا۔ آچار تیار کرنا۔ آچار ڈالنا۔ کسی پھل کو ترش کرنا۔
 آچار ڈالنا (۱)۔ آچار بنانا (۲)۔ گلانا (۳)۔ سسرانا (۴)۔ پڑا رکھنا۔ بہت دن تک ڈال رکھنا۔
 آچار (کرنا) نکالنا (۱)۔ محاورہ، بہت ہیٹنا بگت بنانا۔
 آچار یہ اس۔ مذ [استاد۔ معلم۔ گورو (۲)۔ برہمن (۳)۔ کسی فرقے کا بانی (۴)۔
 ایک خطاب جو لائق آدمیوں کو دیا جاتا (۵)۔ پانڈوؤں کے استاد درمن۔
 آچھیں (۱)۔ صوت [چھینکے کی آواز۔]

آج

آحاد (آحاد) (۱)۔ ص [۱]۔ احد کی جمع۔ ایک سے نو تک گنتی۔ اکابیاں۔

آج

آج (۱)۔ ص [۱]۔ مٹا کرنے کی آواز کھنکارنا (۲)۔ نفرت کرنے کے لیے بولنے

والا لفظ۔

آج (۱)۔ ص [۱]۔ مٹا کرنے کی آواز۔ کلمہ حنارت۔ لعنت ملامت پھنکار۔ کلمہ است۔

آج (آج) (۱)۔ ص [۱]۔ وہ جانور جس کے فوطے نکال دیئے گئے ہوں۔ جھسی۔

آج (۱)۔ ص [۱]۔ مٹا کرنے کی آواز۔ کلمہ حنارت۔ لعنت ملامت پھنکار۔ کلمہ است۔

آج (۱)۔ ص [۱]۔ مٹا کرنے کی آواز۔ کلمہ حنارت۔ لعنت ملامت پھنکار۔ کلمہ است۔

آج (۱)۔ ص [۱]۔ مٹا کرنے کی آواز۔ کلمہ حنارت۔ لعنت ملامت پھنکار۔ کلمہ است۔

آج (۱)۔ ص [۱]۔ مٹا کرنے کی آواز۔ کلمہ حنارت۔ لعنت ملامت پھنکار۔ کلمہ است۔

آج (۱)۔ ص [۱]۔ مٹا کرنے کی آواز۔ کلمہ حنارت۔ لعنت ملامت پھنکار۔ کلمہ است۔

آج (۱)۔ ص [۱]۔ مٹا کرنے کی آواز۔ کلمہ حنارت۔ لعنت ملامت پھنکار۔ کلمہ است۔

آج (۱)۔ ص [۱]۔ مٹا کرنے کی آواز۔ کلمہ حنارت۔ لعنت ملامت پھنکار۔ کلمہ است۔

آج (۱)۔ ص [۱]۔ مٹا کرنے کی آواز۔ کلمہ حنارت۔ لعنت ملامت پھنکار۔ کلمہ است۔

آج (۱)۔ ص [۱]۔ مٹا کرنے کی آواز۔ کلمہ حنارت۔ لعنت ملامت پھنکار۔ کلمہ است۔

آج (۱)۔ ص [۱]۔ مٹا کرنے کی آواز۔ کلمہ حنارت۔ لعنت ملامت پھنکار۔ کلمہ است۔

آج (۱)۔ ص [۱]۔ مٹا کرنے کی آواز۔ کلمہ حنارت۔ لعنت ملامت پھنکار۔ کلمہ است۔

آج (۱)۔ ص [۱]۔ مٹا کرنے کی آواز۔ کلمہ حنارت۔ لعنت ملامت پھنکار۔ کلمہ است۔

آج (۱)۔ ص [۱]۔ مٹا کرنے کی آواز۔ کلمہ حنارت۔ لعنت ملامت پھنکار۔ کلمہ است۔

آج (۱)۔ ص [۱]۔ مٹا کرنے کی آواز۔ کلمہ حنارت۔ لعنت ملامت پھنکار۔ کلمہ است۔

آج (۱)۔ ص [۱]۔ مٹا کرنے کی آواز۔ کلمہ حنارت۔ لعنت ملامت پھنکار۔ کلمہ است۔

آج (۱)۔ ص [۱]۔ مٹا کرنے کی آواز۔ کلمہ حنارت۔ لعنت ملامت پھنکار۔ کلمہ است۔

آج (۱)۔ ص [۱]۔ مٹا کرنے کی آواز۔ کلمہ حنارت۔ لعنت ملامت پھنکار۔ کلمہ است۔

آج (۱)۔ ص [۱]۔ مٹا کرنے کی آواز۔ کلمہ حنارت۔ لعنت ملامت پھنکار۔ کلمہ است۔

آج (۱)۔ ص [۱]۔ مٹا کرنے کی آواز۔ کلمہ حنارت۔ لعنت ملامت پھنکار۔ کلمہ است۔

آج (۱)۔ ص [۱]۔ مٹا کرنے کی آواز۔ کلمہ حنارت۔ لعنت ملامت پھنکار۔ کلمہ است۔

آج (۱)۔ ص [۱]۔ مٹا کرنے کی آواز۔ کلمہ حنارت۔ لعنت ملامت پھنکار۔ کلمہ است۔

آج (۱)۔ ص [۱]۔ مٹا کرنے کی آواز۔ کلمہ حنارت۔ لعنت ملامت پھنکار۔ کلمہ است۔

آج (۱)۔ ص [۱]۔ مٹا کرنے کی آواز۔ کلمہ حنارت۔ لعنت ملامت پھنکار۔ کلمہ است۔

آج (۱)۔ ص [۱]۔ مٹا کرنے کی آواز۔ کلمہ حنارت۔ لعنت ملامت پھنکار۔ کلمہ است۔

آج (۱)۔ ص [۱]۔ مٹا کرنے کی آواز۔ کلمہ حنارت۔ لعنت ملامت پھنکار۔ کلمہ است۔

آج (۱)۔ ص [۱]۔ مٹا کرنے کی آواز۔ کلمہ حنارت۔ لعنت ملامت پھنکار۔ کلمہ است۔

آج (۱)۔ ص [۱]۔ مٹا کرنے کی آواز۔ کلمہ حنارت۔ لعنت ملامت پھنکار۔ کلمہ است۔

آج (۱)۔ ص [۱]۔ مٹا کرنے کی آواز۔ کلمہ حنارت۔ لعنت ملامت پھنکار۔ کلمہ است۔

آج (۱)۔ ص [۱]۔ مٹا کرنے کی آواز۔ کلمہ حنارت۔ لعنت ملامت پھنکار۔ کلمہ است۔

آج (۱)۔ ص [۱]۔ مٹا کرنے کی آواز۔ کلمہ حنارت۔ لعنت ملامت پھنکار۔ کلمہ است۔

آج (۱)۔ ص [۱]۔ مٹا کرنے کی آواز۔ کلمہ حنارت۔ لعنت ملامت پھنکار۔ کلمہ است۔

آج (۱)۔ ص [۱]۔ مٹا کرنے کی آواز۔ کلمہ حنارت۔ لعنت ملامت پھنکار۔ کلمہ است۔

آخری اشاعت (ع۔ ف۔ مٹ) آخری مرتبہ شائع ہونا۔ مکرر۔
 آخری بہار (ع۔ ف۔ مٹ) اخیر فصل۔ آخری موسم حسن یا موسم کا آخری زمانہ
 آخری پوشاک۔ کفن۔
 آخری چہار شنبہ (ع۔ ف۔ ا۔ مذ) (۱۱) آخری بدمہ۔ (۲۱) عربی کے دومرے
 بیسے صفحہ کے آخری بدمہ کو حضرت رسول مہینوں نے غسل صحت فرمایا
 تھا۔ اس کی رسم۔
 آخری دم۔ زندگی کا آخری سانس نزع کا عالم۔
 آخری ڈولر (۱۱) اخیر زمانہ (۲۱) آخری گشت۔ جام شراب کی آخری گردش
 آخری دیدار (ع۔ ف۔ مذ) وقت نزع کا دیدار۔ جنازہ اٹھنے وقت کا دیدار
 مہرے کا چہرہ قبر میں رکھنے کے بعد دیکھنا۔
 آخری ڈگری (ع۔ ا۔ مٹ) وہ ڈگری جو عدالت سے آخری دفعہ دی چلتے
 آخری زمانہ (ع۔ ف۔ ا۔ مذ) (۱۱) اخیر وقت۔ بڑھاپے کے دن (۲) اقرب
 قیامت کا زمانہ۔
 آخری سواری (ع۔ ف۔ ا۔ مٹ) سواری پر آخری مرتبہ چڑھنا (۲۱)
 جنازہ سے مراد ہے۔
 آخری صحبت (ع۔ ا۔ مٹ) آخری ملاقات۔
 آخری فہمائش (ع۔ ف۔ مٹ) وہ نوٹس جو آخری دفعہ جاری کیا جاتے۔
 آخری اطلاع نامہ۔
 آخری قیمت (ع۔ ا۔ مٹ) وہ زیادہ سے زیادہ دام جو آخر میں لگیں۔
 وہ قیمت جس پر سودا طے ہو جائے۔
 آخری معلومہ سکونت۔ وہ جگہ جہاں کسی کا آخری قیام معلوم ہو۔
 آخری ملاقات۔ وہ ملاقات جس کے بعد طے کا اتفاق نہ ہو۔
 آخریں (آخر۔ بریں) [ف۔ صغ] آخر کا سب سے بعد کا۔
 آخریں دم۔ آخری سانس۔ نزع کا وقت۔ سب سے اخیر وقت۔
 آخر (آ۔ خور) [ف۔ ا۔ مٹ] (۱۱) چوپایوں کے گھاس چارے کی جگہ۔
 (۲۱) طویلہ۔ اھطیل (۳) وہ گھاس جو مویشیوں سے نچ رہتی ہے (۳۱)
 نکما۔ خواب۔ ناکارہ۔ بے کار (۴) کوڑا کرکٹ۔ رومی۔
 آخر سالار۔ طویلہ کا سردار۔ متمم یا نگاہ۔ اھطیل کا افسر
 آخر سٹکیں۔ بیخبر مقام۔ چٹیل میدان۔
 آخر کی بھرتی (ف۔ ا۔ مٹ) اے کامضامین کی کثرت، نیکے اور نالائق
 سے آدمی کو تنگ کرنا۔ ناکارہ چیزوں کا ڈھیر۔
 اخون۔ اخوند (آ۔ خون) (آ۔ خوند) [ف۔ ا۔ مذ] استاد معلم بیابانی۔
 اخون زادہ۔ استاد کا بیٹا۔

آداب بجالانا (۱۱) محاورہ (۱۱) بجز وانگسار سے سلام کرنا (۲) شکر یہ ادا
 کرنا۔ (۳) رخصت ہونا۔ فائل ہوجانے والے کو طرز اسلام کرنا۔
 آداب اشا ہائے شاہی (ع۔ ف۔ مذ) (۱۱) بادشاہوں سے بات چیت
 کرنے اور درباری حاضر کی طرحیے (۲) بادشاہوں کا سلام۔
 آداب صحبت (ف۔ ع۔ ا۔ مذ) (۱) محفل کے انداز اور طور و طریقے۔
 آداب عرض کرنا (۱۱) محاورہ (۱۱) ادب سے سلام کرنا (۲) آداب بجالانا۔
 آداب عرض ہے (۱۱) محاورہ (۱۱) تسلیم عرض ہے (۲) مشکل کام دینے
 سے پرہیز ہونا اور کسی کے ناکام رہنے پر طرز اسلام کرنے وقت کہتے ہیں۔
 آداب فن (ع۔ ف۔ مذ) کسی تہذیب اور اصول کے قاعدے۔
 آداب کرنا (۱۱) محاورہ (۱) ادب سے سلام کرنا۔
 آداب محفل (ع۔ ف۔ مذ) مجلس کے قاعدے اور طریقے۔
 آداب والقباب (ع۔ ف۔ مذ) خطر کے آغاز میں مکتوب الیہ کے
 مرتبے کے موافق جو الفاظ اور فقرے لکھے جاتے ہیں۔
 آداب و تسلیمات (ع۔ ف۔ مذ) نہایت عاجزی سے سلام کرنا کوئی شجر
 آداب ہے (۱) محاورہ (۱۱) سلام عرض ہے (۲) رخصت چاہتا ہوں۔
 آدرش (اس۔ ا۔ مذ) آئینہ (۲) اصل نمونہ (۳) اصول (۴) سیرت (۵)
 معیار (۶) کسی گھرنے کے روایتی اخلاق۔
 آدم (آ۔ دم) [ع۔ ا۔ مذ] (۱) آدمی۔ انسان (۲) حضرت آدم جو پہلے
 انسان تھے۔
 آدم آبی۔ ایک چوپایہ جو آدمی سے مشابہ ہوتا ہے اور بانی میں رہتا ہے
 آدم بے سایہ (ع۔ ف۔ لقب) (۱) کتابیہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 کی طرف۔
 آدم ثانی (ع۔ ف۔ لقب) حضرت نوح کا لقب۔ کیونکہ طوفان نوح
 کے بعد دنیا آپ کے ساتھیوں اور آپ کی نسل سے آباد ہوئی۔
 آدم خالی (ع۔ ف۔ مذ) (۱) خاک کا پتلا۔ انسان آدمی۔ مٹی کا بنا ہوا۔
 آدم شجر (ع۔ ف۔ صغ) آدمی کو کھا جانے والا درندہ یا وحشی لوگ۔
 آدم راگندم بہشت نہ سالو (ف۔ نیش) انسان کو بہشت کے گیہوں
 سے موافق نہیں۔ انسان کو اچھا کھانا ہضم نہیں ہوتا۔
 آدم زاد، آدمی زاد (ع۔ ف۔ مذ) آدمی کی اولاد۔ انسان۔
 آدم شناس (ع۔ ف۔ صغ) اچھے بُرے آدمی کا پہچاننے والا۔
 آدم صحابی (ع۔ ف۔ مذ) جنگی آدمی۔ وحشی آدمی۔
 آدم کی اولاد (۱) مذ انسان۔ نسل آدم۔
 آدم گیری (ع۔ ف۔ صغ) انسانیت۔ شرافت۔ آدمیت۔
 آدم نہ آدم زاد (۱) (مشل) ویرانہ۔ بیابان۔ وہ جگہ جہاں پر روزنک آبادی
 نہ ہو۔
 آدمی (آ۔ ذ۔ می) [ف۔ ا۔ مذ] (۱) انسان۔ بنی آدم (۲) انسانی اخلاق والا
 سچو دار۔ تجزیہ دار۔ (۳) ملازم۔ نوکر۔ خادم (۴) قاصد (۵) خاندان۔ آشنا۔
 آدمی آدمی انتہی کوئی تمیز کوئی لنگر (۱) (مشل) سب آدمی ایک جیسے نہیں
 ہوتے۔ کوئی اچھا ہوتا ہے کوئی بُرا۔
 آدمی اپنے مطلب میں ادا ہوتا ہے۔ (۱) (مشل) انسان اپنی غرض حاصل

آ۔ د

آد (ہ۔ صغ) [۱۱] اول۔ ابتداء۔ آغاز (۲) سدا۔ ہمیشہ۔
 آداب آد (آد۔ مذ) [ع۔ ا۔ مذ] (۱) ادب کی جمع (۲) مرتبے کا پاس لحاظ
 (۳) قواعد (۴) تنظیم سے سلام کرنا (۲) تعظیمی الفاظ (۵) تہذیب۔
 اخلاق (۶) طرز کے شکر یہ ادا کرنے کا نماز۔

کرنے کے لیے اچھا بڑا سب کچھ کر گزرتا ہے۔
 آدمی اناج کا کبیرا ہے (۱۱۔ مثل) آدمی کی زندگی کا مدار کھانے پر ہے۔
 آدمی بنانا (۱۱۔ محاورہ) (۱۱) عدم سے وجود میں لانا (۲) ہند بنانا شائستہ بنانا
 آدمی بنانا (۱۱۔ محاورہ) آدمیت سیکھنا۔ شائستہ ہونا۔ آدمی کی شکل و صورت
 اختیار کرنا۔ وحشت دور کرنا (۲۱) جنینیت درست کرنا۔
 آدمی پانی کا بلبلہ ہے (۱۱۔ مثل) زندگی عارضی ہے۔ کوئی دم کی زندگی ہے۔
 آدمی پر آدمی کرتا ہے (۱۱۔ محاورہ) بہت بھڑپے۔ مخلوق کوئی پڑتی ہے۔
 آدمی پیٹ کا کتابے (۱۱۔ مثل) رزق کے لیے آدمی سب کچھ کرتا ہے۔
 آدمی ٹھوکر کھا کر سنبھلتا ہے (۱۱۔ مقولہ) انسان غلطی کرنے یا نقصان
 کسے جی۔ کچھ تجربہ حاصل کرتا ہے۔
 آدمی جانے لے، سوزنا جلتے کسے (۱۱۔ مثل) آدمی کے عیب و مہز ساتھ
 رہتے ہی سے معلوم ہوتے ہیں۔ سونے کا کسے سے ہی پتہ چلتا ہے۔
 آدمی سا کوئی پکھیر وہیں (۱۱۔ مثل) آدمی ایک جگہ نہیں رہتا۔ جگہ جگہ
 پھرتا رہتا ہے۔
 آدمی کا شیطان آدمی سے (۱۱۔ مثل) آدمی آدمی ہی کی صحبت سے تڑپ
 پڑتا ہے۔
 آدمی کچھ ٹھوکر ہی سیکھتا ہے (۱۱۔ مثل) نقصان اٹھانے کے بعد ہی آدمی
 کو عقل آتی ہے۔
 آدمی کیا جو آدمی کو نہ پہچانے (۱۱۔ مثل) جو اچھے بڑے میں تیز نہ کر سکے
 انسان نہیں کہنا چاہیے۔
 آدمی کی دوا آدمی ہے (۱۱۔ مثل) انسان ہی انسان کے کام آتا ہے۔
 آدمی کی قدر مرے بہ بڑی ہے (۱۱۔ مثل) مرنے کے بعد ہی کسی آدمی
 کی کم محسوس ہوتی ہے اور قدر ہوتی ہے۔
 آدمی کی کسوٹی معاملہ ہے (۱۱۔ محاورہ) معاملہ پڑنے سے ہی آدمی کی
 حقیقت معلوم ہوتی ہے۔
 آدمی کے حملے میں آنا (۱۱۔ محاورہ) شریف بننا۔ اچھا طریقہ اختیار کرنا۔
 آدمی نے پکا دودھ پیایا ہے (۱۱۔ مثل) انسان سے ہی خطا ہوتی ہے۔
 آدمی ہویا لے وال کے بودم (۱۱۔ مثل) بالکل ہی بے وقوف ہو بودم کی
 دال انگ کریں تو بودم بن جاتا ہے یعنی نرے اور ہو۔
 آدمی ہویا جانور (۱۱۔ مثل) بالکل تیز نہیں۔ نرے اچھن ہو۔
 آدمی ہویا گھن جگہ (۱۱۔ مثل) بہت زیادہ گھونٹے پھرنے والے آدمی کو
 کہتے ہیں۔ (۲۱) اچھن اور بے وقوف آدمی۔
 آدمی ہونا (۱۱۔ محاورہ) انسان ہونا۔ شریف ہونا (۲) معمولی شکل و صورت
 آدمیت (آ۔ دمی۔ یت۔ الف۔ مٹ) (۱۱) اخلاق۔ مروت۔ لہناری
 سلیقہ (۲) عقل و شعور۔ سمجھ۔ انسانیت۔
 آدمیت آنا (۱۱۔ محاورہ) فیز اور سلیقہ حاصل ہونا۔ انسانی خیریاں برید ہونا
 آدمیت اٹھ جانا (۱۱۔ محاورہ) اچھی عادتوں کا ختم ہوجانا۔ انسانیت جاتی
 رہنا۔ بد تیز ہوجانا۔ بے عقل ہوجانا۔
 آدمیت اختیار کرنا (۱۱۔ محاورہ) اچھی عادتیں سیکھنا۔ شریف بن جانا۔
 آدمیت سکھانا (۱۱) سکھانا۔ شائستہ بنانا۔ تہذیب سکھانا۔

آدمیت سیکھنا۔ شعور سیکھنا۔ عقل و تیز حاصل کرنا۔
 آدمیت سے گزر جانا (۱۱۔ محاورہ) انسانیت کی باتیں چھوڑ دینا۔ تفرات
 چھوڑ دینا۔ بد تیزی اختیار کرنا۔
 آدمیت کے حملے میں آنا (۱۱۔ محاورہ) شریف بن جانا۔ غصہ کم ہوجانا۔
 آدمیت میں لانا (محاورہ) تفرات سکھانا۔ انسان بنانا۔
 آنا (ق۔ مص) شروع کرنا۔ ابتدا کرنا۔ آغاز کرنا۔
 آدھ (ہ۔ صف) آدھا کا مخفف۔ نصف۔ دو برابر حصوں میں ایک حصہ
 آدھ سیر (۱۱۔ محاورہ) بیٹ بھر کا آٹا۔ رزق۔ روزی۔ گزراوقات کا ذریعہ
 آدھ سیر کے سے لگ جاتا (۱۱۔ محاورہ) روزی کمانے لگتا۔
 آدھا (ا۔ دھا) (ہ۔ صف) کسی چیز کے دو برابر حصوں میں سے ایک نصف۔
 آدھا آب گھر۔ آدھا سب گھر (مثل) اہل حق جو زیادہ حصہ خود
 رکھ لیتا ہو۔
 آدھا آدھا۔ نصف۔ نصف۔ ایک چیز کے دو برابر حصے۔
 آدھا آدھا ہونا۔ گھٹنا۔ شرمندہ ہونا
 آدھا باؤ (۱۱) نصف باؤ (۲) گھوڑا بہت۔ قدرے کچھ۔ کسی قدر۔
 آدھا تیز، آدھا بیٹر (۱۱۔ مثل) (۱۱) ان میل۔ بے جوڑ (۲) بد انتظامی اور
 بد سلیقگی۔
 آدھا رہ جانا (۱۱۔ محاورہ) بہت ڈبلا ہوجانا۔
 آدھا سا بھیا (۱۱۔ مذ) برابر کی شریکت۔
 آدھل سی سی (۱۱۔ مذ) آدھے سر کا درد
 آدھا کر دینا (۱۱۔ محاورہ) (۱۱) بہت کم کر دینا۔ بہت ڈبلا کر دینا (۲)
 شرمندہ کر دینا۔
 آدھا نام لینا (۱۱۔ محاورہ) حقارت یا محبت سے ادھورا نام لینا۔
 آدھا ہوجانا (۱۱۔ محاورہ) بہت ڈبلا ہوجانا۔
 آدھے پیٹے۔ نصف خوراک۔ جتنی بھوک ہو اس کا آدھا۔
 آدھے دھڑ کا دم نکلنا (۱۱۔ محاورہ) آدھے بدن کی جان نکلنا۔ بیماری کا
 کوئی حملہ جس میں آدھا بدن بے کار ہوجائے۔
 آدھے فاضی قدوہ، آدھے باوا آدم (۱۱۔ مثل) کثیر اولاد زیادہ عیالدار
 آدھے کا سا بھی۔ برابر کا شریک۔
 آدھے کا سا بھی، برابر کی چوٹی (۱۱۔ مثل) آدھے حصے کا شریک برابر کی
 جنینیت رکھتا ہے۔
 آدھے گاؤں روالی، آدھے گاؤں ہوئی (۱۱۔ مثل) اپنی اپنی اگ لگتے
 ہونا۔ نا اتفاق۔
 آدھے میاں محمدی، آدھے میں سارا گاؤں (۱۱۔ مثل) آدھا خود لینا
 آدھے میاں موج، آدھے میں ساری فوج (۱۱) اور باقی آدھا گھر کے سب
 لوگوں کو دینا۔
 آدھا (ق۔ ا۔ مذ) بھروسہ، سہارا۔
 آدھا ہونا (۱۱۔ محاورہ) بیٹ بھرنا۔ کافی ہونا۔
 آدھوں آدھ (آ۔ دھوں۔ آدھا) (ہ۔ صف) نصف نصف۔ برابر کے حصے۔
 آدھی آدھی (ا۔ دھی) (ہ۔ صف) نصف۔ آدھا کی تائینٹ۔

آڈو فٹال (ف. صف) آگ بکھرنے والا شعلہ، جگر
آڈو قہ - دیکھو آڈو قہ -

آڈھی بات - ناتمام بات - ادھوری بات -
آڈھی بات نہ اٹھنا - ذرا سی ناگواریات برداشت نہ ہونا -
آڈھی بات نہ پوچھنا - ذرا قدر نہ کرنا - دھیان نہ دینا - توجہ نہ کرنا -
بے عزت سمجھنا -

آ - ر

آڈھی بات نہ سنانا بے توجہی برتنا - شان کے خلاف ذرا سی بھی بات نہ سنانا -

آر (ہ - ا - مٹ) لوسے کی نوکدار کپیل جو کاغذ وغیرہ میں سوراخ کرنے اور چھوڑ بیٹھنے کے کام آتی (۲۱) پچھو بھڑ یا زکھی کا ڈنگ (۳۱) چھڑا چھیدنے کا سوا یا ستاری (۴) کھاتے کے آخر میں مصدری اور کبھی فاعلیت کے معنی دیتا ہے - پھنکار - سنار

آڈھی چھوڑ ساری کو دھلے (۱) - مثل زیادہ کالا بچ کرنے سے آڈھی رہے نہ ساری پائے (۲) کھڑکی سے بھی ہاتھ دھونے پڑتے ہیں (۳) قناعت نہ کرنے والا تہا ہو جاتا ہے -

آر لگانا (۱) - محاورہ (۲) آڑھونا - سست آدمی کو ابھارنا -
آراء اع - مٹ (۱) رائے کی جمع - مشورے - خیالات -
آراف - لاحقہ (۲) استن مصدر سے حیدر امر - جو کسی اسم کے ساتھ آکر اسے اسم فاعل بنا دیتا ہے - معنی سجانے والا - جیسے چن آرا، جہاں آرا وغیرہ -

آڈھی دنیا آباد آڈھی ویران (۱) - مثل ایک چشم آدمی پر بھینتی کے طور پر کہتے ہیں -
آڈھی ڈھولی (۱) - مٹ (۱) پانوں کی ایک ڈھولی جس میں دو سو پان ہوتے ہیں - اُن میں سے آڈھے یعنی سو پان -

آرا (آ - را) (۱) [آر - ا] لوسے کا ایک دندانہ دار اوزار جس سے کڑھی چیری جاتی ہے -

آڈھی رات ادھر آڈھی رات ادھر (۱) - مثل آڈھی رات کا وقت - آڈھی رات ڈھلنا - آڈھی رات بیت جانا -

آرا جلانا (۱) [آرے سے چیرنا (۲)] بہت ظلم کر کرنا - زیادتی کرنا - آرا چلنا - ظلم ہونا - دکھ پہنچنا -

آڈھی رات جھامبی آئے (۱) [بش] وقت سے پہلے منصوبے سوچنے شام ہی سے منہ پھیلائے لگ جانا - پیش از مرگ واویلا -

آرا کھیل - آرا سے لکڑنی چیرنے کا پیشہ کرنے والا - آرا کشتی کرنا - آرا جلانا - آرا کشتی کا پیشہ کرنا - آرا سے چلانا (۱) [آرے سے چیرنا (۲)] ظلم کرنا - آرا سے چلنا - ظلم ہونا - دکھ پہنچنا -

آڈھین (ہ - ا - مذ) فرماں بردار - مطیع - عاجز - مسکین - آڈھی باسی (ہ - ا - مذ) ہندوستان کے قدیم باشندے جنہیں ہندوؤں نے اچھوت بنا رکھا ہے -

آرا سٹی (آ - را س) [آرے سے چیرنا (۲)] سخت سزا دینا - آرا سٹی (آ - را س) [آرے سے چیرنا (۲)] سخت سزا دینا - آرا سٹی (آ - را س) [آرے سے چیرنا (۲)] سخت سزا دینا -

آڈیش - آڈیش (آ - ڈیس، آ - ڈیش) [آرے سے چیرنا (۲)] حکم ہدایت - ارشاد - آڈینہ (آ - وی - نہ) [آرے سے چیرنا (۲)] جمع -

آرا سٹی (آ - را س) [آرے سے چیرنا (۲)] سخت سزا دینا - آرا سٹی (آ - را س) [آرے سے چیرنا (۲)] سخت سزا دینا - آرا سٹی (آ - را س) [آرے سے چیرنا (۲)] سخت سزا دینا -

آڈیش (آ - ڈیس، آ - ڈیش) [آرے سے چیرنا (۲)] حکم ہدایت - ارشاد - آڈینہ (آ - وی - نہ) [آرے سے چیرنا (۲)] جمع -

آ - ڈ

آرا سٹی (آ - را س) [آرے سے چیرنا (۲)] سخت سزا دینا - آرا سٹی (آ - را س) [آرے سے چیرنا (۲)] سخت سزا دینا - آرا سٹی (آ - را س) [آرے سے چیرنا (۲)] سخت سزا دینا -

آڈٹ (Audit) (آ - ڈٹ) [آرے سے چیرنا (۲)] محاسبہ کرنا - جانچ بھرکاری حساب کی تفتیح کرنا -

آرا سٹی (آ - را س) [آرے سے چیرنا (۲)] سخت سزا دینا - آرا سٹی (آ - را س) [آرے سے چیرنا (۲)] سخت سزا دینا - آرا سٹی (آ - را س) [آرے سے چیرنا (۲)] سخت سزا دینا -

آڈٹنا (آ - ڈٹ - نا) [آرے سے چیرنا (۲)] محاسبہ کرنا - آڈٹنا (آ - ڈٹ - نا) [آرے سے چیرنا (۲)] محاسبہ کرنا - آڈٹنا (آ - ڈٹ - نا) [آرے سے چیرنا (۲)] محاسبہ کرنا -

آرا سٹی (آ - را س) [آرے سے چیرنا (۲)] سخت سزا دینا - آرا سٹی (آ - را س) [آرے سے چیرنا (۲)] سخت سزا دینا - آرا سٹی (آ - را س) [آرے سے چیرنا (۲)] سخت سزا دینا -

آڈیٹر (Auditor) (آ - ڈی - ٹر) [آرے سے چیرنا (۲)] محاسب، محنت حساب کی جانچ پڑتال کرنے والا -

آرا سٹی (آ - را س) [آرے سے چیرنا (۲)] سخت سزا دینا - آرا سٹی (آ - را س) [آرے سے چیرنا (۲)] سخت سزا دینا - آرا سٹی (آ - را س) [آرے سے چیرنا (۲)] سخت سزا دینا -

آڈیٹوریم (Auditorium) (آ - ڈی - ٹر) [آرے سے چیرنا (۲)] وہ کمرہ جہاں تقریر کی جاتی تھی - اور سامعین کی نشستوں کا انتظام ہوتا ہے اور سامعین تک آواز مناسب انداز میں پہنچانے کا انتظام ہوتا ہے -

آرا سٹی (آ - را س) [آرے سے چیرنا (۲)] سخت سزا دینا - آرا سٹی (آ - را س) [آرے سے چیرنا (۲)] سخت سزا دینا - آرا سٹی (آ - را س) [آرے سے چیرنا (۲)] سخت سزا دینا -

آڈو (آ - ڈو) [آرے سے چیرنا (۲)] چھٹا رومی میڈر - چیت یا مارنچ کا مہینہ - آڈو (آ - ڈو) [آرے سے چیرنا (۲)] چھٹا رومی میڈر - چیت یا مارنچ کا مہینہ - آڈو (آ - ڈو) [آرے سے چیرنا (۲)] چھٹا رومی میڈر - چیت یا مارنچ کا مہینہ -

آرا سٹی (آ - را س) [آرے سے چیرنا (۲)] سخت سزا دینا - آرا سٹی (آ - را س) [آرے سے چیرنا (۲)] سخت سزا دینا - آرا سٹی (آ - را س) [آرے سے چیرنا (۲)] سخت سزا دینا -

آڈو (آ - ڈو) [آرے سے چیرنا (۲)] چھٹا رومی میڈر - چیت یا مارنچ کا مہینہ - آڈو (آ - ڈو) [آرے سے چیرنا (۲)] چھٹا رومی میڈر - چیت یا مارنچ کا مہینہ - آڈو (آ - ڈو) [آرے سے چیرنا (۲)] چھٹا رومی میڈر - چیت یا مارنچ کا مہینہ -

آرا سٹی (آ - را س) [آرے سے چیرنا (۲)] سخت سزا دینا - آرا سٹی (آ - را س) [آرے سے چیرنا (۲)] سخت سزا دینا - آرا سٹی (آ - را س) [آرے سے چیرنا (۲)] سخت سزا دینا -

آڈو (آ - ڈو) [آرے سے چیرنا (۲)] چھٹا رومی میڈر - چیت یا مارنچ کا مہینہ - آڈو (آ - ڈو) [آرے سے چیرنا (۲)] چھٹا رومی میڈر - چیت یا مارنچ کا مہینہ - آڈو (آ - ڈو) [آرے سے چیرنا (۲)] چھٹا رومی میڈر - چیت یا مارنچ کا مہینہ -

آرا سٹی (آ - را س) [آرے سے چیرنا (۲)] سخت سزا دینا - آرا سٹی (آ - را س) [آرے سے چیرنا (۲)] سخت سزا دینا - آرا سٹی (آ - را س) [آرے سے چیرنا (۲)] سخت سزا دینا -

آڈو (آ - ڈو) [آرے سے چیرنا (۲)] چھٹا رومی میڈر - چیت یا مارنچ کا مہینہ - آڈو (آ - ڈو) [آرے سے چیرنا (۲)] چھٹا رومی میڈر - چیت یا مارنچ کا مہینہ - آڈو (آ - ڈو) [آرے سے چیرنا (۲)] چھٹا رومی میڈر - چیت یا مارنچ کا مہینہ -

آرٹ (Art) رنگ۔ ۱۔ مذ (۱۱) ہنز، فن (۲) صفائی (۳) سلیقہ۔ ڈھب۔
 (۴) بیاری۔ مکاری۔ حکمت عملی (۵) شاعری۔ مصوری۔
 آرٹسٹ (Artist) (آر۔ آرٹسٹ) [۱۔ ا۔ مذ] صنایع۔ مصور۔ تصویریں۔
 بنانے والا۔ کاری۔ کمر۔ فنکار۔ نقاش۔
 آرٹیکل (Article) (آر۔ ٹی۔ کھل) [انگ۔ ا۔ مذ] (۱۱) مضمون (۲) قانون
 کی دفعہ۔ (۳) بشرط (۴) دفعہ عائد کرنا ۱۵۱ باند بنانا۔
 آرٹیکل آف وار (Articles of War) وہ مجموعہ قوانین جو افواج کے
 انتظام اور سزاؤں وغیرہ سے متعلق ہو۔ ضابطہ سینگ۔ آئین لشکری۔
 آرچ بشپ (Archbishop) (آر۔ ب۔ شپ) [انگ۔ ا۔ مذ]
 لٹ پادری۔ پادریوں کا اعلیٰ افسر۔
 آرڈر (Order) (آر۔ ڈر) [انگ۔ ا۔ مذ] (۱) حکم۔ ارشاد۔ فرمان فرمائش۔
 (۲) تمغہ (۳) طرز (۴) درجہ (۵) صنف (۶) آداب۔ ضابطہ (۷) امن وامان۔
 (۸) ہنڈی (۹) پاس۔ داخلہ۔
 آرڈر بک Order Book حکم لکھنے کی کتاب (۲) وہ کتاب جس میں
 خریدار وہ چیزیں خرید کر دے جو وہ مول لینا چاہتا ہے۔
 آرڈر دینا (کرننا) کسی چیز کے خریدنے کی فرمائش کرنا۔
 آرڈر لینا (۱) کسی چیز کے خریدنے کی فرمائش لینا۔ حکم حاصل کرنا۔
 آرڈر (Ordinary) (انگ۔ معمولی۔ سہری۔ عام۔
 آرڈی نیس (Ordinance) (آر۔ ڈی۔ نیس) [انگ۔ ا۔ مذ] وہ ضابطہ
 جو حکومت فوری ضرورت کے پیش نظر وقتی طور پر ملک میں نافذ کر دیتی ہے
 آرڈو (آر۔ زد) [ف۔ ا۔ منٹ] (۱) خواہش۔ تمنا۔ چاہ (۲) مراد۔ مقصد۔
 مطلب۔ جمع۔ آرڈو با۔
 آرڈو ہونا (۱) (مجاورہ) مراد پوری ہونا۔ امید حاصل ہونا۔
 آرڈو ٹیکنا (۱) (مجاورہ) دلی خواہش کا نہ چھیننا۔ تمنا کے آثار نظر آنا۔
 آرڈو خاک میں مل جانا (۱) (مجاورہ) مایوس ہوجانا۔ ناکام ہوجانا۔ خواہش
 پوری نہ ہونا۔
 آرڈو عیب نہیں (۱) (مقولہ) کسی چیز کی خواہش کرنے میں برائی نہیں۔
 آرڈو کا خون ہونا (۱) (مجاورہ) خواہش کا پورا نہ ہونا۔
 آرڈو کرنا (۱) (مسن) خواہش کرنا۔ منت اور (بچ کرنا۔
 آرڈو گاہ (ف۔ ا۔ منٹ) امید پوری ہونے کی جگہ (۱۲) دنیا۔
 آرڈو گورنر لے جانا (۱) (مجاورہ) زندگی میں تمنا پوری نہ ہونا۔
 آرڈو مٹانا (۱) (مجاورہ) امید کے خلاف کرنا۔ شوق کو خاک میں ملانا۔
 آرڈو مرجانا (۱) (مجاورہ) خواہش ختم ہوجانا۔ امید مٹ جانا۔
 آرڈو مند۔ خواہش مند۔ متعلق۔ مشتاق۔
 آرڈو مند ہونا (۱) (مجاورہ) خواہش مند ہونا۔ ملتی ہونا۔
 آرڈو مندی (ف۔ ا۔ منٹ) (۱) امید داری۔ خواہش۔
 آرڈو مٹانا (۱) (مجاورہ) مراد پوری ہونا۔ مطلب برآنا۔ خواہش پوری ہونا۔
 آرڈو مٹے خام۔ وہ آرڈو جس کا برآنا ممکن نہ ہو۔ خیال خام۔
 آرڈو سی (آر۔ سی) [۱۰۔ منٹ] (۱) امید (۲) ایک زیور جو عورتیں ہاتھ کے

مذا ٹھانا (۲) صحت پانا۔ سندرست ہونا۔ شفا پانا (۳) فرصت پانا۔ فراغت پانا۔
 آرام پائی۔ ایک قسم کی جوتی۔
 آرام پسند اف۔ صفت۔ سست۔ کابل۔
 آرام بخ ہونا (۱) (مجاورہ) عیش میں غلغل پڑنا۔
 آرام جاں (۱) (جان راحت) (۲) معشوق۔ محبوب۔ دل آرام۔
 آرام چاہنا (۱) (مجاورہ) سکھ دھونڈنا۔ راحت تلاش کرنا۔ چین کا طاری ہونا۔
 آرام چوکی ات۔ منٹ (۱) آرام کرنے کے لیے کھڑکی کا چھوٹا تختہ۔
 آرام چھوڑ دینا (۱) (مجاورہ) راحت سے ہاتھ اٹھانا۔
 آرام دینا (۱) آرام پہنچانا۔ سکھ دینا (۲) شفا دینا۔ چنگا کرنا۔ سندرست
 کرنا۔ صحت بخشنا۔
 آرام رساں (ف۔ صفت) چین دینے والا۔ آسائش پہنچانے والا۔
 آرام روح۔ روح کے لیے باعث آرام۔ معشوق۔ اولاد۔
 آرام سے پاؤں پھیلانا (۱) (مجاورہ) (۱) چین سے سونا۔ سکھ کی نیند سونا۔
 (۲) بے فکر ہونا۔ بے غم ہونا۔ بے فکری سے بسر کرنا۔
 آرام سے گذرنا (۱) (مجاورہ) چین سے بسر ہونا۔ فراغت سے گزرنے۔
 آرام طلب (ف۔ صفت) (۱) آرام چاہنے والا (۲) کابل۔ سست
 آرام کرسی (ف۔ ا۔ منٹ) ایک قسم کی بڑی بکیر دار کرسی۔
 آرام کرنا (۱) بھڑنا۔ قرار پانا (۲) چپ رہنا۔ خاموش رہنا (۳) استنا۔
 دم لینا (۴) سونا۔ لیٹنا۔ استراحت کرنا (۵) چین کرنا۔
 آرام گاہ (ف۔ ا۔ منٹ) آرام کرنے کی جگہ۔ سونے کی جگہ۔ خواب گاہ۔
 آرام لینا (۱) (مجاورہ) بھڑنا۔ سکون حاصل کرنا۔
 آرام میں ہیں (۱) (مقولہ) (۱) سوتے ہیں (۲) سکھ کرتے ہیں
 آرام ہو جانا (۱) سکھ ہو جانا۔ چین ہونا (۲) صحت پانا۔ شفا پانا۔ تکلیف کا
 دور ہونا۔
 آرام کش (آر۔ را۔ اش) [ف۔ ا۔ منٹ] (۱) زیبائش۔ آرائی۔ زیب و زینت
 سجاوٹ۔ بناؤ سنگ (۲) درستی مکان و فرش (۳) کاغذ کی چھوٹی لادھیان۔
 پھول۔ لہری کنول جھاڑو فانس وغیرہ۔ جو مالدار بات کے ساتھ لے جاتے ہیں
 آرٹسٹ پسند (ف۔ صفت) (۱) بناؤ سنگدار کا شوقین (۲) زیب و زینت کا دلدار۔
 آرٹسٹ کرنا (۱) (مجاورہ) سیمانا۔ آراستہ کرنا۔
 آرٹسٹ محفل (ف۔ ا۔ منٹ) مجلس کی سجاوٹ (۲) اردو کی مشہور کتاب
 جس میں حاتم طائی کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔
 آرٹسٹ (آر۔ آر۔ ان۔ وڈ) [ف۔ صفت] سہلانے والا۔
 آر۔ پار (آر۔ پار) [ف۔ صفت] ایرکن لاء اور وہ کرنا۔ یہ ہر اوردہ ہر۔
 دونوں رخ۔
 آرٹیکل (۱) (مذ) حدوتہ۔ جینٹ۔ نذر۔ قربانی۔ خیرات۔
 آرٹھوگرافی (Arthrography) (آر۔ ٹھوگ۔ را۔ ٹی) [انگ۔ ا۔ مذ] (۱)
 علم حروف میں گرامر کا وہ حصہ جو الفاظ کا تلفظ بتائے، (۲) عمارت کا ایسا
 نقشہ۔
 آرٹی (آر۔ ٹی) [اس۔ ا۔ منٹ] پوجا کی ایک قسم جس میں دیوتاؤں کے سامنے
 بیج مٹھیا دیا پھرایا جاتا ہے۔

انگوٹھے میں پہنتی ہیں۔ اس میں شیشہ جڑتا ہوتا ہے۔

آر سی تو دیکھو (۱- محاورہ) اپنی اصل تو ذرا دیکھو۔

آر سی ٹوٹ گئی (۱- محاورہ) بد صورتی و بخت جب حسن کا دعویٰ کرے تو ایسے

موضوع پر اسے اپنی اصلیت سمجھانے کے لیے بولتے ہیں یعنی ذرا شکل دیکھو۔

آر سی مصحف دکھانا (۱- محاورہ) عقد کے بعد دو لہا اور دہن کو آئینہ اور

قرآن دکھانے کی رسم دو لہا و دہن کو ایک دوسرے کا منہ دکھانا۔

آرکیالوجی (Archaeology) (آر۔ ک۔ یا۔ لو۔ جی) [انگ۔ ۱۰-منشا]

علم آثار قدیمہ۔ قدیم عمارتوں کا علم۔

آرکیالوجیکل ڈیپارٹمنٹ (Archaeological Department)

محکمہ آثار قدیمہ۔

آرکیسٹرا (Orchestra) (آر۔ کیسٹ۔ را) [انگ۔ ۱-منشا]

آرگن (Organ) (آر۔ گن) [انگ۔ ۱۰-منشا] (۱) ارگن باجا (۲) آکر۔

اوزار (۳) واسطہ۔ رابطہ۔ نوحیان۔

آرمیڈا (Armada) (آر۔ مے۔ ڈا) [انگ۔ ۱۰-منشا] جنگی جہازوں کا

بیراجو ۱۵۸۸ء میں فلپ دوم شاہ ہسپانیہ نے انگلستان پر حملہ کرنے

کے لیے روانہ کیا تھا۔

آرنڈہ (آر۔ ن۔ ڈہ) [ف۔ صفت] لانے والا۔ جمع۔ ارندگان۔

آرنیجہ۔ آرمیجہ (س۔ ۱۰-منشا)۔ مقدمہ۔ آغاز۔ شروع۔

آرنیجہ کرنا۔ شروع کرنا۔ آغاز کرنا۔ ابتدا کرنا۔

آروغ (آر۔ روغ) [ف۔ ۱-منشا] ڈکار

آرمینا (آر۔ نہ۔ نا) [آر۔ مص] (۱) آپہنچنا۔ چلے آنا (۲) گھر پڑنا (۳)

آبنا۔ آباد ہونا۔

آری (آر۔ ری) [۱-منشا] (۱) لکڑی چیرنے کا ایک ادوارہ

(۲) لکڑی چیرنے کا ایک ادوارہ

آرے (آر۔ رے) [ف] لکڑی ایجاب۔ بے شک۔ بان۔

آرے بے کرنا (۱- محاورہ) ہاں ہاں کرنا۔ ٹاننا۔ ٹانے ہائے کرنا۔

آرے چلنا (۱- محاورہ) جان پر ہلنا۔ مصیبت اٹھانا۔

آریہ (آر۔ یہ) [س۔ ۱۰-منشا] (۱) بزرگ۔ معزز (۲) قدیم قوم جس کی نسل

مجموعہ لوگ پاکستان، ہندوستان، ایران اور یورپ میں آباد ہیں (۳)

کاشت کار۔ کھیتی کرنے والا۔ ڈھور چرانے والا (۴) آریہ قوم کی زبان۔

آریہ سماج (۱۰-۱۱-منشا) (۱) آریہ مذہب یا آریہ لوگوں کے اعتقاد و طریق

پہنچنے والی ہندو جماعت (۲) پنڈت دیانند سوسنی کی پیرو جماعت۔

آریہ ورت۔ آریوں کے رہنے کی جگہ۔ دریائے جہنا اور گنگا کا وسطی علاقہ

آر پانڈھنا (۱- محاورہ) اوٹ کرنا۔ پردہ ڈالنا۔

آرٹیکل پڑنا (۱- محاورہ) اوٹ میں آنا۔ سہارا لینا۔ پناہ لینا۔ ہمانا کرنا۔

آرٹ توڑنا (۱- محاورہ) پردہ اکٹھا دینا۔ حجاب توڑنا۔

آرٹھوٹوٹنا (۱- محاورہ) پناہ چاہنا۔ بچاؤ تلاش کرنا۔

آرٹھ کرنا (۱- محاورہ) پردہ کرنا۔

آرٹینا (۱- محاورہ) پناہ لینا۔

آرٹ میں آجانا (۱- محاورہ) اوٹ میں آجانا۔

آرٹ میں آنا (۱- محاورہ) مداخلت کرنا۔ درمیان میں آنا۔ بیچ میں پڑنا۔ ستر

راہ ہونا۔ راستہ میں آنا۔

آرٹھ ہونا (۱- محاورہ) حجاب ہونا۔ اوٹ ہونا۔ پردہ ہونا۔

آرٹھ سے آجانا (آنا) (۱- محاورہ) درمیان میں آنا۔ بیچ میں پڑنا۔ حاکم ہونا۔

(۲) پشت پناہ ہونا۔ کام آنا۔ حمایت لینا۔ مددگار ہونا۔

آرٹھ سے ہاتھوں لینا (۱- محاورہ) تڑپنا۔ تکیا۔ معقول کرنا۔ برا بھلا کہنا۔

آرٹھ (آرٹھ) [۱-منشا] (۱) ترچھا۔ ٹیڑھا۔ کج۔ آرمیجواں (۲) ایک دھاری

کیسٹرا۔

آرٹھ اتارنا (۱- محاورہ) (۱) کپڑے کو ترچھا پھاڑنا (۲) زور دار پتنگ کو ہوا

کے رخ سے بچا کر اتارنا۔

آرٹھ یا کچھ (۱- منشا) ایک قسم کا چوڑی دار پانچجامہ۔

آرٹھ ترچھا (۱- منشا) ٹیڑھا ہانکا۔

آرٹھ ترچھا ہونا (۱- محاورہ) (۱) ٹیڑھا ہانکا ہونا (۲) ترش رو ہونا۔ بگڑنا۔

ناراض ہونا۔ نچا ہونا۔

آرٹھ جوتالا۔ موسیقی میں ایک تال۔

آرٹھ گوری۔ کشتی کا ایک بیج۔ حریف کی ٹانگ میں اپنی ٹانگ اڑا کر اس

کا پاؤں زمین سے اکھاڑ دینا۔ ٹنگری مار کر گرا دینا۔

آرٹھ ہونا (۱) ٹیڑھا ہونا۔ ترچھا ہونا (۲) پیٹھا پھیرنا۔ چوڑے موڑنا۔ اونڈھنا ہونا

سورج پوڑنا۔ سامنے کرنا۔

آرٹھ (آرٹھ) [۱-منشا] (۱) ایک مشہور پھل۔ شفا لو۔

آرٹھت (آرٹھت) [۱-منشا] (۱) دکان یا کوٹھی جہاں سوداگروں

کا مال کمیشن لے کر بیجا جاتا ہے (۲) دلالی۔ دستوری۔ ایجنسی۔ کمیشن۔

دلالی پر فروخت۔

آرٹھتی (آرٹھتی) [آرٹھتی] (یا) [۱-منشا] آرٹھت کی

دکان رکھنے والا۔ کمیشن پر لوگوں اور بیوپاریوں کا مال بیچنے والا۔

تھوک فروش۔

آرٹھی (آرٹھی) [۱-منشا] (۱) اجتماعی مددگار (۲) ٹیڑھی۔ کج۔ ترچھی۔

(۲) جب لڑکے دو جماعتیں بن کر کھیلتے ہیں تو ہر جماعت کا ایک سردار

رہتا ہے۔ باقی اس کے آرٹھی کہلاتے ہیں۔

آرٹھی بیل (۱-منشا) (۱) ترچھی بیل جو عورتیں اپنے کپڑوں میں لگاتی یا

کھڑکتی ہیں۔

آرٹھی ترچھی سنانا (۱- محاورہ) برا بھلا کہنا۔

آرٹھی ترچھی سنانا (۱- محاورہ) برا بھلا کہنا۔

آرٹھ

آرٹھ (۱۰-منشا) (۱) اوٹ۔ بچاؤ۔ پناہ (۲) مددگار۔ ضامن (۳) ٹیکن۔

سارا (۳) اٹکاؤ۔ باڑھ (۵) بندی۔ ممانعت۔ مناجی۔ روک

آرٹھ بند۔ آرٹھ بندن۔ ایک کپڑا جو دھوئی کی طرح پیٹ کر آگ بچھا دیکھنے

کو باندھتے ہیں۔ ایک قسم کا ننگوٹ کا کچھا۔ ننگر۔

آزادی کرنا (۱) - محاورہ (۱) - آزادی کی اصطلاح میں طولا درق کوٹ کر
عوضاً کوٹنا (۲) - کھیل میں دوست بتانا۔
آزادی کوٹ - تڑھی تڑاش کی کوٹ۔
آزادی بیگل (۱) - مٹھ ایک زیور کا نام جو گلے میں بدھی کی طرح پہنا
جاتا ہے۔

آز

آزاد - ۱۔ مٹھ اجڑا۔ طبع۔ لایح۔

آزاد (آزاد) (ف) - صف (۱) - بری۔ رُستگار (۲) - خود مختار۔ فارغ (۳) - بے غم
بے قید۔ جو کسی کا پابند نہ ہو۔ غلام کی ضد۔ جمع - آزادگان (۴) - ستر کی ایک
تیسر۔ سرد آزاد (۵) - مولانا محمد حسین مصنف آجیات اور مولانا ابوالکلام
کا مخلص۔

آزاد رو۔ آزادہ کرو (۱) - آزاد طبیعت والا (۲) - وہ شخص جو کسی بات کا
پابند نہ ہو۔ خود مختار۔ بے تعصب (۳) - فقیر (۴) - نڈر۔ بے خوف۔
آزاد طبع (۱) - وہ شخص جس کی طبیعت میں آزادی ہو۔ (۲) - بے خوف طبیعت
کھنے والا۔ صاف گو۔

آزاد کا سوٹا (۱) - مذ آزاد فقیر کا ڈنڈا (۲) - منہ بھٹ۔ اکھڑے بے باک۔
آزاد کا قشقہ (۱) - مذ ماٹھے پر آزاد فقیر ہونے کی نشانی۔ آزاد فقیر یا تھے
سہرالف بنا لینے ہیں۔

آزاد کرنا (۱) - محاورہ (۱) - رہا کرنا۔ چھٹکارا دینا۔ خلاصی دینا (۲) - نوکری سے
جواب دینا۔ موقوف کرنا۔ رخصت کرنا۔ نکال دینا۔
آزاد لوگ (۱) - مذ آزاد فقیروں کا گروہ (۲) - کسی قید کی پابندی نہ
کرنے والے۔

آزاد مرد (ف) - ۱۔ مذ نڈر۔ بے خوف۔ کھرا اور صاف گو آدمی۔
آزاد منہش (ف) - ۱۔ مذ وہ شخص جو کسی بات کا پابند نہ ہو۔ وہ شخص جو
کسی سے لاگ پیٹ نہ رکھے۔ صاف گو۔

آزاد نامہ (ف) - مذ وہ نوشتہ یا دستاویز جو غلام کی آزادی کے لیے
لکھی جائے۔

آزاد ہونا (۱) - محاورہ (۱) - چھوٹنا۔ رہا ہونا۔ بری ہونا (۲) - خود مختار ہونا
۳۔ بے پروا ہونا بے شرم ہونا۔ بے ادب ہونا۔

آزادانہ (آ۔ ذ۔ د۔ ن۔) (ف) - صف (۱) - آزادی کی طرح (۲) - آزادی کے
ساتھ۔ کسی روک ٹوک کے بغیر۔ بے باکانہ۔

آزادانہ راستے۔ وہ راستے جس میں کسی کی طرف داری یا دباؤ نہ ہو۔
بے تعصب راستے۔

آزادانہ وضع (۱) - آزاد فقیروں کا طور طریق (۲) - ادبائوں کی وضع۔
آزادی (آ۔ ذ۔ گ۔) (ف) - ۱۔ مٹھ آزادی۔ رہائی۔

آزادہ (آ۔ ذ۔ د۔) (ف) - صف (۱) - آزاد۔ قید سے چھوٹا ہوا۔
آزادہ مزاجی - طبیعت کی سادگی۔ بے تکلفی۔ بے پروائی۔

آزادی (آ۔ ذ۔ د۔) (ف) - مٹھ (۱) - رہائی۔ چھٹکارا (۲) - خود مختاری

باختاری۔ بے پروائی۔

آزادی کا (خط) کاغذ (۱) - مذ رہائی کا پروانہ۔

آزار (آ۔ زار) (ف) - ۱۔ مذ (۱) - بیماری۔ دکھ۔ مرض (۲) - تکلیف۔ سختی
پیتا۔ جنجال۔ بکھیر۔

آزار اٹھانا (۱) - محاورہ (۱) - صدمہ برداشت کرنا۔ درد دکھ چھیلنا۔

آزار پہنچانا (۱) - محاورہ (۱) - دکھ دینا۔ تکلیف پہنچانا۔ ستانا۔

آزار پہنچنا (۱) - محاورہ (۱) - تکلیف پہنچنا۔ ستا یا جانا۔

آزار پھیلنا (۱) - محاورہ (۱) - کسی بیماری کا بڑھنا۔

آزار پیدا ہونا (۱) - محاورہ (۱) - دوگ لگنا۔

آزار دینا (۱) - محاورہ (۱) - دکھ دینا۔ تکلیف دینا۔

آزار لگنا (۱) - محاورہ (۱) - بیماری لگنا۔ عذاب لگنا۔ جنجال لگنا۔

آزار (آ۔ ذ۔ ع۔) (ف) - ۱۔ مذ حضرت ابراہیم کے چچا کا نام جو بہت پرست اور
مہتر تڑاش تھے۔

آزادگی (آ۔ ذ۔ گ۔) (ف) - ۱۔ مٹھ (۱) - تنگی۔ ناخوشی۔ ناراضگی (۲) -
بگاڑ۔ رجحش۔ ملال (۳) - اداسی۔ غمگینی۔

آزادہ (آ۔ ذ۔ د۔) (ف) - صف (۱) - ناراض۔ ناخوش۔ خفا۔ رنجیدہ
جمع: آزادگان۔

آزادہ خاطر (ف) - ۱۔ مذ آزادہ دل۔ اداس۔ غمگین۔ خفا۔ رنجیدہ۔

آزادہ کرنا (۱) - محاورہ (۱) - رنجیدہ کرنا۔ خفا کرنا۔ ناراض کرنا۔ دل دکھانا۔

آزادہ ہونا (۱) - محاورہ (۱) - ناخوش ہونا۔ رنجیدہ ہونا۔ خفا ہونا (۲) -
بابوس ہونا۔

آزیرم (آ۔ زرم) (ف) - ۱۔ مٹھ شرم دہیا۔ نرمی۔

آزرقہ (آ۔ زرقہ) (ف) - ۱۔ مذ (آ۔ زرقہ) (ع۔) (۱) - مذ (۱) - تھوڑی سی غذا
(۲) - کم تنخواہ (۳) - پرند کا چوگا۔

آزما (آ۔ زما) (ف) - صف (۱) - امتحان لینے والا۔ تجربہ کرنے والا۔ جمع۔ آزماہیں۔

آزما لینا (۱) - محاورہ (۱) - جانچ لینا۔ امتحان کر لینا۔ خوب دیکھ بھال لینا۔

آزما لینا (آ۔ زما۔ نا۔) (ف) - مص [آزما۔] - امتحان کرنا۔ پرکھنا۔

آزما لینش (آ۔ زما۔ اش) (ف) - ۱۔ مٹھ [جانچ پڑھنا] - امتحان۔ تجربہ۔

آزما لینش کرنا۔ آزمانا۔ پرکھنا۔ جانچنا۔

آزما لینی (آ۔ زما۔ لینی) (ف) - صف (۱) - امتحانی۔

آزمودہ (آ۔ زمو۔ دہ) (ف) - صف (۱) - مجرب۔ دیکھا بھالا۔ جانچا ہوا۔

آزما ہوا۔ تجربہ کیا ہوا۔ امتحان کیا ہوا۔ پرکھا ہوا (۲) - عنبر۔ منشا۔

آزمودہ را آزمودن (ف) - صفت (۱) - امتحان سے ہوئے کو آزمانا۔
غلطی ہے۔

آزمودہ کار (ف) - صف (۱) - مجرب کار۔ ہوشیار۔ ہنرمند۔ چستے کار۔ خزانہ (۳) -
غنہند۔ چالاک۔ مستعد۔

آزمودہ لینا (۱) - عنبر یا منشا دریافت کرنا۔ ٹوہ لینا۔ بھید لینا (۲) - امتحان
لینا۔ جانچنا۔

آزوبازو (ف) - اس پاس۔ دھڑ۔ ادھر۔

آس

آس [ہ۔ ۱۔ مٹ] (۱) آشا۔ امید (۲) خواہش۔ آرزو۔ آسرا۔ بھروسہ۔ سہارا۔

آس اولاد (ہ۔ ۱۔ مٹ) بال بچے۔ بیٹا بیٹی۔

آس اولاد والی۔ صاحب اولاد عورت۔

آس باندھنا (۱) محاورہ (۲) امید کرنا۔ آسرا لگانا۔

آس بندھنا (۱) محاورہ (۲) امید بندھنا۔ توقع ہونا۔

آس بیکانی جوتکے وہ حیوت ہی مرحلے۔ (۱) مثل (۲) پیرائے بھروسہ پر زندہ رہنے سے مرعانا بہتر ہے۔

آس بی بی کی ٹھیکیاں وہ ٹھیکیاں جن پر حضرت عائشہؓ کی نیاز دلوائی جاتی ہے۔

آس بچنا (۱) محاورہ (۲) امید برآنا۔ مراد حاصل ہونا۔

آس پوری ہونا (۱) محاورہ (۲) امید پوری ہوجانا۔ کام بن جانا۔

آس بچنا (۱) محاورہ (۲) امید چھوڑ دینا۔ آرزو سے ہاتھ دھولینا۔

آس تینا (۱) محاورہ (۲) انتظار کرنا۔ امیدوار ہونا (۳) راہ دیکھنا۔

آس ٹوٹنا (۱) محاورہ (۲) امید کرنا۔ مایوس کرنا۔

آس ٹوٹنا (۱) محاورہ (۲) امید ہونا۔ مایوس ہونا۔

آس چھوٹنا (۱) محاورہ (۲) امید ہونا۔ مایوس ہونا۔

آس چھوٹنا (۱) محاورہ (۲) امید سے ہاتھ اٹھانا۔ ہاتھ دھو بیٹھنا۔

آس دینا (۱) محاورہ (۲) امید بندھنا۔ ڈھارس بندھنا۔

آس رکھنا (۱) کرنا (۲) محاورہ (۳) بھروسہ رکھنا۔ امید رکھنا۔

آس لگانا (۱) محاورہ (۲) امید باندھنا۔

آس مراد (۱) مٹ (۲) آل اولاد (۳) دھن دولت۔

آس مراد والی (۱) مٹ (۲) آل اولاد والی (۳) دھن دولت والی (۴) صاحب نصیب عورت۔

آس ہونا (۱) محاورہ (۲) امید ہونا۔ بھروسہ ہونا۔ اطمینان ہونا (۳) گل ہونا۔

آسا (آس) [ہ۔ ۱۔ مٹ] (۱) امید۔ بھروسہ۔ (۲) امیدوار۔

آسا جیسے نرا سامرے (۱) مثل (۲) انسان امید کے سہارے جیتا ہے۔

آسا اور مایوسی سے مرعانا ہے۔

آسا (آسا) [ف] مانند۔ مثل۔

آساہ۔ مذ (۱) ایک راک جو صبح کے وقت گایا جاتا ہے۔

آسان (آسان) [ف] صاف۔ سہل۔ سہج۔

آسان (کر دینا) کرنا (۱) محاورہ (۲) سہل کر دینا۔ مشکل دور کر دینا۔

آسان ہونا۔ سہل ہونا۔ سہج ہونا۔ مشکل رفع ہونا۔

آسانی (آسانی) [ف] (۱) مٹ (۲) سہولت۔ سہج پن۔ بلا وقت۔

آسان آرام۔ آسانس۔ راحت۔ صبح۔ آسانیاں۔

آسانس (آسانس) [ف] (۱) مٹ (۲) راحت۔ آرام۔ سکھ۔ چین۔ جمع۔ آسانس۔

آس پاس (آس پاس) [ہ۔ ۱] (۱) ارد گرد۔ قرب و جوار۔ پاس پڑوس گرد و پیش۔ اعلیٰ بغل۔

آس پاس برسے، دلی پڑی ترسے (۱) مثل (۲) اخبار فائدہ اٹھائیں اور حقدار محروم رہیں۔

آس پاس پھرنا۔ چکر گرد پھرنا۔ طواف کرنا۔ صدقہ ہونا۔

آس پاس ہونا۔ ارد گرد ہونا۔ نزدیک ہونا۔

آستا (آستا) [مذ] آسرا۔

آستان۔ آستانہ (آس تان، آس تانہ) [ف] (۱) مٹ (۲) چوکھٹ ڈیڑھ ٹھیک۔ دروازہ (۳) بزرگوں کے مزار۔ روضہ گار دروازہ۔

آستان بوس (۱) چوکھٹ چومنے والا (۲) معتقد۔ عقیدتمند۔ خادم۔

آستان بوسی (۱) چوکھٹ چومنا (۲) غلامی۔ خدمت گاری (۳) کسی بزرگ سے نیاز حاصل کرنا۔

آستانی (آس تانہ) [ہ۔ ۱۔ مٹ] (۱) کسی گیت کا ابتدائی ٹکڑا۔ (۲) خیال کو بھی آستانی کہتے ہیں۔

آستین (آس تین) [ف] (۱) مٹ (۲) شیر دانی کوٹ۔ کمرے یا قمیص وغیرہ کی بانہ۔

آستین چڑھانا (۱) محاورہ (۲) آستین اوپر کھینچنا (۳) کام کے لیے مستعد ہونا۔

آستین مرنے کو تیار ہونا (۲) ذبح کرنے پر آمادہ ہونا۔

آستین کا سانپ (۱) مذ (۲) چچا ہوا دشمن۔ دوستی کے پردے میں دشمنی کرنے والا۔

آستین میں سانپ پالنا (۱) مثل (۲) دشمن کی پرورش کرنا۔ اپنے بخواہ کو اپنے پاس رکھنا۔

آسرا (آس) [ہ۔ ۱۔ مٹ] (۱) سہارا۔ بھروسہ۔ آس۔ امید (۲) وسیلہ۔ توقع۔

آسرا اگڑنا (۱) محاورہ (۲) سہارا لینا۔ بھروسہ کرنا۔ امید کرنا۔

آسرا اٹھنا (۱) محاورہ (۲) سہارا ڈھونڈنا۔ پناہ چاہنا۔

آسرا ٹوٹنا (۱) محاورہ (۲) امید ختم ہونا۔ سہارا نہ رہنا۔

آسرا دینا (۱) محاورہ (۲) سہارا دینا۔ امید دلانا۔

آسرا ڈھونڈنا (۱) محاورہ (۲) سہارا تلاش کرنا۔

آسرا کرنا (۱) محاورہ (۲) امید کرنا۔ توقع کرنا۔

آسرا لگانا (۱) محاورہ (۲) امید باندھنا۔

آسرا لینا (۱) محاورہ (۲) پناہ لینا۔ حمایت چاہنا۔ مدد ڈھونڈنا۔

آسرا ہونا (۱) محاورہ (۲) امید ہونا۔ بھروسہ ہونا۔ سہارا ہونا۔

آسمان (آس مان) [ف] (۱) مٹ (۲) جلی کی مانند (۳) فلک۔ چرخ۔ گردوں۔ آکاش۔ پرانے زمانے میں زمین کو ساکن اور آسمان کو متحرک مانتے تھے۔ اس لیے آسمان نام ہو گیا۔ جیسے چلی کے اوپر کا پاٹ کھوتا ہے۔ نیچے کا ساکن ہوتا ہے۔

آسمان بر اڑنا (۱) محاورہ (۲) اڑنا۔ غرور کرنا۔ شجی مارنا (۳) بلند پروازی کرنا۔

آسمان پر کھوگیا (۱) محاورہ (۲) ایسی حرکت کرنا جس سے (پنی ہی ذلت ظاہر ہو رہے ہو) اور بے فائدہ کام کرنا۔ (۲) بٹوں کا منہ چڑھانا۔

آسمان پر پڑھ لکے (تارنا) (۱) مثل) عزت بڑھانے کے گھٹانا۔
 آسمان پر چڑھنا (۱) محاورہ) سر بلند کرنا۔ مرتبہ بٹھا (۲) حد سے زیادہ عزت
 و توصیف کرنا (۳) خوشامد کرنا۔ چالیسویں کرنا۔
 آسمان پر دماغ کھینچنا (۱) محاورہ) غرور کرنا۔ اپنے کو بہت بڑا سمجھنا۔
 آسمان پر قدم رکھنا (۱) محاورہ) دُور کی لینیاچی مارنا (۲) غرور کرنا۔
 آسمان پر ہونا (۱) محاورہ) بلند مرتبہ ہونا (۲) خود پسند ہونا۔ مغرور ہونا۔
 آسمان پھٹ پڑنا (۱) محاورہ) تھرائی نازل ہونا۔ سخت مصیبت پڑنا۔
 آسمان نقرہ آنا (۱) محاورہ) شدید بد نظم ہونا (۲) واقعہ غلط ہونا۔
 آسمان مل جانا (۱) محاورہ) (۱) آسمان کا اپنی جگہ سے ہٹ جانا۔ مراد امر محال
 سے (۲) ناممکن انقلاب ہو جانا۔
 آسمان لوٹ پڑنا (لوٹنا) (۱) محاورہ) (۱) آسمان گر پڑنا (۲) سخت آفت آنا۔
 سخت مصیبت پڑنا۔ غضب الہی نازل ہونا۔
 آسمان جاہ (ف) صفت) (۱) آسمان کی طرح بلندی والا۔ آسمان کی اوچائی والا۔
 (۲) بہت عزت والا۔ بڑے رتبے والا۔
 آسمان جھانکنا (۱) محاورہ) (۱) آسمان دیکھنا (۲) اُڑنے کا ارادہ کرنا (۳) مرغ کا
 مستحق میں تیار ہونا۔
 آسمان دیکھنا (۱) محاورہ) (۱) نا امید کی عالم میں نظر بند ہونا۔ جیوسی کی
 حالت میں آسمان کی طرف نظر اٹھانا (۲) منتی کی حالت میں عورتیں اوپر
 دیکھنے کو کتنی میں تنا کر طبیعت دوسری طرف منوجہ ہوجانے۔
 آسمان زمین ایک (گردینا) (گردانا) (۱) مثل) (۱) بل جل ڈال دینا۔ ہلڑ
 مچا دینا (۲) بے حد کوشش کرنا۔ بہت دوڑ دھوپ کرنا۔
 آسمان زمین ایک ہونا (۱) محاورہ) بڑا تغیر ہونا۔ زمانہ الٹ پلٹ ہوجانا۔
 سخت مصیبت پڑنا۔
 آسمان زمین کا فرق (۱) محاورہ) بہت بڑا فرق۔
 آسمان زمین کے تلابے ملانا (۱) محاورہ) (۱) انتہا درجے کی کوشش کرنا۔
 (۲) بہت بھروسہ ہونا۔ گب مارنا۔
 آسمان زمین متفق کیوں نہیں ہوجاتے (۱) نذر مرہ) قیامت کیوں نہیں
 آجاتی جب کو کراہ کرے تو اس وقت کہتے ہیں۔
 آسمان زمین میں دھوم مچانا (۱) محاورہ) عام شہرت ہونا۔ دنیا بھر میں
 مشہور ہونا۔
 زمین آسمان میں سناٹا مچانا۔ ہوجانا۔ (۱) محاورہ) ہر طرف خاموشی چھا جانا۔
 ہمہ تن گوشی ہوجانا۔
 آسمان زمین بلا دینا (۱) محاورہ) بل جل ڈال دینا۔ طوفان برپا کر دینا۔
 آسمان سر پر اٹھانا (۱) محاورہ) بہت مل جانا۔ سفور ستر کرنا۔ اودھم مچانا۔
 آسمان سے آگ برسنا (۱) محاورہ) سخت گرمی پڑنا۔
 آسمان سے اترنا (۱) محاورہ) کسی چیز کا نہایت عمدہ ہونا (۲) کوئی نیا
 مضمون ذہن میں آنا۔
 آسمان سے ناپیں کرنا (۱) نہایت بلند ہونا۔ (۲) بہت مغرور ہونا۔
 آسمان سے ٹک کر گھٹانا۔ (۱) بہت اوچھا ہونا۔
 آسمان سے ٹک کر لیتا (۱) محاورہ) زبردست کا مقابلہ کرنا۔ بہت بلند ہونا۔

آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا (۱) مثل) (۱) ادھی سرکار سے کام نکل گیا۔ مگر
 معمولی اہل کار کی مخالفت سے رک گیا۔ (۲) ایک مصیبت سے چھوٹنا
 دوسری میں بچا بیٹھنا۔
 آسمان سے گرتا (۱) محاورہ) آسمان سے نیچے آنا (۲) اونچے مرتبے سے گرتا۔
 (۳) مفت ہاتھ آنا۔ بے وقعت ہونا۔
 آسمان قدر (ف) صفت) نہایت بلند مرتبہ۔ عالی جاہ۔ عالی پایہ۔ عالی شان۔
 آسمان کا کھنوکھاپنے منہ پر آتا ہے (۱) مثل) کسی نیک آدمی پر بڑی لگانے
 سے اپنے ہی اوپر بدنامی آتی ہے۔
 آسمان کا رکھنا نہ زمین کا (۱) مثل) غارت کر دیا۔ بریا کر دیا۔ کہیں کا نہ رکھا۔
 آسمان کا رنگ بدلنا (۱) محاورہ) انقلاب آنا۔ حالات تبدیل ہونا۔
 آسمان کھونچا (۱) ادھی چیز (مزاحا) لبا آدمی (۲) ایک طرح کا حقہ جس کی نئے
 کوٹھنک پیپتی ہے۔
 آسمان کھا گیا یا زمین (مکھل گئی) (۱) مثل) اخلا جانے کہاں غائب ہو گئی بہت
 تلاش کے بعد چیز کے نہ ملنے پر کہا جاتا ہے۔
 آسمان کی ناپیں (۱) امت سمجھ میں نہ آنے والی باتیں۔
 آسمان کی چیل زمین کی چیل (۱) مثل) بہت چالاک عورت۔ جو ایک جگہ
 دیکھے اور دوسرے جگہ کام کرے۔
 آسمان کی خیر لانا (۱) محاورہ) بہت اوچھا ہونا۔ بہت بلند پروازی کرنا۔
 آسمان کی سونچنا (۱) محاورہ) دوسری سونچنا۔
 آسمان کی سر کرنا (۱) محاورہ) خیالات کا دوسرا پہنچنا۔ عموماً اس وقت کہا
 جاتا ہے جب کوئی شخص نشتے کی حالت میں ہو۔
 آسمان کے تارے توڑنا (۱) محاورہ) (۱) ناممکن اور دشوار کام کرنا۔ نہایت
 سخت اور مشکل بات میں کھسب ہونا۔
 آسمان میں تھکن لگانا (۱) محاورہ) آسمان میں بیوزدگانا جہاں کوئی نہ پہنچے
 وہاں پہنچنا (۲) عیاری کرنا۔ چالاک کرنا۔
 آسمان میں چھید کرنا (۱) محاورہ) نہایت عیاری اور چالاک کرنا۔
 آسمان میں چھید ہوجانا (۱) محاورہ) لگانا مینہ برسنا۔ دھواں دھار مینہ برسا۔
 بھابھوں میں پھینکنا۔ موسلا دھار بارش ہونا۔
 آسمان پھٹ پڑے (۱) محاورہ) قیامت نہ آجائے۔ عذاب نازل نہ ہو جائے
 بہت ظلم اور گناہ ہونے کے موقع پر کہا جاتا ہے۔
 آسمان و زمین سیاہ ہوجانا (۱) محاورہ) حد سے زیادہ پریشانی اور غم ہونا۔
 آسمان و زمین کے پردے میں نہیں (۱) مثل) نایاب ہے۔ عقاب ہے۔ کہیں
 پتہ نشان نہیں ہے۔
 آسمان بلا دینا (۱) محاورہ) آہ وزاری کا اثر ہونا۔ بہت زور سے چیخا چلانا۔
 آسمانی (آس۔ آس۔ نی) (ف) صفت) (۱) آسمان کا۔ آسمان کی طرف منسوب
 (۲) مثل آسمان نیلیوں۔ آبی۔ نیلا۔ ہلکا نیلا (۳) ادھی۔ بالائی (۴)
 ناگمانی۔ اچانک۔ انفذیہ (۵) امت) جھنگ۔ شراب۔ تاڑھی۔ (۶)
 بلندی (ف)
 آسمانی آفت (ع) ۱۔ صفت) آسمانی بلا۔ ناگمانی بلا۔ نذر خدا۔ وہ مصیبت
 جو خدا کی طرف سے ہو۔

آسمانی پلانا۔ بھنگ یا ناٹری پلانا۔ نشتر پلانا۔

آسمانی نیز (۱) ہوائی تیز۔ وہ تیز جو آسمان کی طرف پھوڑتے ہیں (۲) بے فائدہ اور بے ہودہ کام۔ وہ کام جس کا نتیجہ کچھ اچھا نہ ہو۔

آسمانی دھکا۔ غیبی صدمہ۔ بلائے ناگہانی۔

آسمانی رنگ۔ آسمان کے رنگ کا۔ نیلا رنگ۔ آبی رنگ۔ ہلکا نیلا رنگ۔ آسمانی کتاب۔ کتاب الہی۔ وہ کتاب جو خدا تعالیٰ کی طرف سے پیغمبروں پر نازل ہوئی ہو۔ مراد توریت۔ زبور۔ انجیل اور قرآن۔

آسمانی کولا (۱) وہ صدمہ جس کا وقت معلوم نہ ہو۔ قہر الہی (۲) برف، اولے وغیرہ جن سے اچانک صدمہ پہنچے۔

آسن (آ۔ سن، ۱-۵) [مذ] (۱) بیٹھک (۲) بیٹھنے کی حالت (۳) ران کے نیچے کا حصہ (۴) ران جھانکھ (۵) ڈبھہ یا اُون کی جہی ہوتی چیز مثل کبیل یا سبتر جس پر سہلو لوگ پوجا پاٹ کرنے کے وقت بیٹھتے ہیں۔ جیسے جاننا۔ گدی۔

مسند (۶) جوگیوں کے بیٹھنے کا ڈھنگ جوگیوں کی جوڑاسی بیٹھکیں (۷) سادھ اور وہ جگہ جہاں جوگی رہتے ہیں اور جوگ مارتے ہیں (۸) مباحثت کرنے کا طریقہ۔ جملہ کی بیٹھک۔ وہ چھتیس طریقے جو کوک شاستر میں لکھے ہیں (۹) سوار کے بیٹھنے کا طریقہ۔ گھوڑے پر بٹھنے کا ڈھنگ (۱۰) بائگی کی وہ جگہ جہاں مہادت بیٹھتا ہے۔

آسن کھڑٹا (۱) محاورہ) سوار کا اپنی جگہ سے ٹل جانا۔ گھوڑے پر چمانہ رہنا ران نہ جمانا۔

آسن باندھنا (۱) محاورہ) ران میں جکڑنا۔ رانوں میں کسنا۔ دونوں رانوں کے بیچ میں دبا لینا۔ رانوں میں پھینچنا۔ آسن لینا۔

آسن پائی (۱) مٹھا بیٹھنے کا پھوڑنا۔ جو ران اور گھاس کا بنا ہوتا ہے۔ آسن پائی لے کر پڑنا (۱) محاورہ) روٹھ کر پڑ جانا۔ اٹوئی کھٹائی لے کر پڑ جانا۔

آسن تلے آنا (۱) محاورہ) (۱) ران تلے آنا۔ سواری کے تلے آنا۔ سواری دینا (۲) جسم کا بوجھ اٹھانا (۳) اطاعت میں آنا۔ تابع ہونا۔ فرمانبرداری کرنا بس میں آنا۔ جا بوا میں آنا۔

آسن جلنا (۱) محاورہ) ایک طرح بیٹھے بیٹھے ران یا زانو میں گرمی پیدا ہونا۔ آسن جھانا (۱) محاورہ) گھوڑے پر بچ کر بیٹھنا (۲) کسی جگہ قیام کرنا۔ رہنے لگنا (۳) انا بول کرنا۔ قبضے میں لانا (۴) دیر تک ہم بستر رہنا۔

آسن جینا (۱) محاورہ) ران جمانا۔ گھوڑے پر بچ کر بیٹھنا۔ آسن جوڑنا۔ آسن سے آسن جوڑنا (۱) محاورہ) رانوں کے بل بیٹھنا۔ ران سے ران ملا کر بیٹھنا۔

آسن ڈکھانا (۱) محاورہ) عبادت کی بیٹھک سے اٹھا دینا (۲) پیاسے دل اچاٹ کر دینا۔ نیت میں فرق ڈالنا۔

آسن رکھنا (۱) جوگیوں کا ڈھکر بیٹھنا (۲) بسترا جمانا۔ بسرام کرنا۔ رات گزارنا۔ رہنا۔ بٹھنا۔

آسن لینا (۱) محاورہ) ٹانگیں اٹھانا۔ جماع کرنے پر مستعد ہونا۔ رانوں میں دبانا۔

آسن (مارنا) مار کر بیٹھنا (۱) محاورہ) جوگیوں کا عبادت کے واسطے بیٹھنا

کسی جگہ جم کر بیٹھنا (۲) ایک ہی بیٹھک سے بیٹھنا (۳) آلتی پالتی مار کر بیٹھنا چار زانو بیٹھنا (۴) گھوڑے پر بچ کر بیٹھنا۔

آسنی (آ۔ سن) (۱) مٹھا [مٹھا] گھاس کی جہی ہوتی چھوٹی چٹائی (۲) لٹھی یا ادنی کپڑا جس پر بیٹھ کر عبادت کی جاتی ہے (۳) فقیروں کے بیٹھنے کا ستر۔

آسودگان خاک (آ۔ سو۔ ڈ۔ گ۔ ن۔ خاک) (ف۔ ا۔) [مذ] خاک میں آرام کرنے والے۔ اہل قبور۔ مرحومین۔

آسودی (آ۔ سو۔ ڈ۔ گی) (ف۔ ا۔) [مٹھا] (۱) اسن و امان چین۔ آلام۔ راحت (۲) دولت مندی۔ مرفہ الحالی۔ فاسخ الہالی۔

آسودہ (آ۔ سو۔ وہ) (ف۔ صف) (۱) آرام کرنے والا (۲) مطمئن (۳) خوشحال۔ دولت مند (۴) مدون۔ مرحوم۔ جمع۔ آسودگان۔

آسودہ حال (ف۔ صف) خوش حال۔ مالدار۔ امیر۔ آسودہ خاطر۔ آسودہ حال (ف۔ صف) فارغ الیال۔ بے فکر۔ بے غم۔ آسودہ ہو جانا (۱) محاورہ) پیٹ بھر جانا۔ سیر ہو جانا۔

آسودہ ہونا۔ دولت مند ہونا۔ فارغ الیال ہونا۔ آسیا (آ۔ سن۔ یا) (ف۔ ا۔) [مٹھا] علی۔ آٹا بیسنے کی کل۔

آسیاب (ف۔ ا۔) [مٹھا] پانی سے چلنے والی چکی۔ پن چکی۔ آسبائے باد (ف۔ مٹھا) ہوا سے چلنے والی چکی۔ بڑھن چکی۔ آسبائنا (مذ) وہ پتھر جس پر پتھیار کی دھار تیز کی جاتی ہے۔

فسان۔ رسان۔ آسب (آ۔ سب) (ف۔ ا۔) [مذ] (۱) صدمہ (۲) نقصان (۳) خوف۔

آسب (۲) دکھ۔ آزار۔ تکلیف۔ الم۔ مصیبت (۵) جن۔ پری۔ دوپہریت۔ سیاہ۔ آسب آنا (۱) محاورہ) (۱) صدمہ پہنچنا۔ آفت آنا۔ ضرر پہنچنا۔ چوٹ لگنا۔

آسب (۲) جن بھوت کا ستانا۔ آسب آنا (۱) محاورہ) اجن آنا۔ بھوت بھگانا۔ منتر یا علم کے نعرہ سے جن کو دفع کرنا۔

آسب پہنچانا (۱) محاورہ) صدمہ دینا۔ نقصان پہنچانا۔ دکھ یا تکلیف دینا۔ آسب پہنچنا۔ (۱) محاورہ) صدمہ پہنچنا۔ نقصان پہنچنا۔ تکلیف پہنچنا۔

آسب زدہ (ف۔ صف) آسب کا مارا ہوا بھوت پریت۔ جن پری کا ستنا ہوا۔

آسب سر پر چڑھنا (۱) محاورہ) کسی سر جن بھوت کا اثر ہونا۔ آسب سر سے اتارنا (۱) محاورہ) جن بھوت کا اثر زائل کرنا۔

آسب کا اثر۔ آسب کا غفل۔ آسب کا دخل۔ جن بھوت کا اثر۔ پری کا سایہ۔

آسب کا سر پر کھیلنا۔ عوام میں فاعل ہے کہ جب آسب کسی کا بیچیا نہیں چھوڑتا تو آسب زدہ کے سامنے چھوٹی اور خوشبو رکھ کر اور بخور سنا کر گانا سنواتے ہیں۔ اس وقت آسب زدہ خوب سر نہ بلانا ہے اور کھیلنا اچھلتا ہے۔

آسب (آ۔ سے۔ بی) (ف۔ صف) [مذ] وہ شخص جس پر آسب ہو۔ آسب زدہ۔

آسیبی مکان۔ وہ مکان جس میں بھوت بریت وغیرہ کا گزر ہو۔
آسیبہ (اس۔ یہ) (ع۔ ا۔ ند) فرعون کی بیوی جو حضرت موسیٰ پر
ایمان لے آئی تھیں۔

آش

آش (ف۔ ا۔ مٹ) [مٹ۔ شوربا۔ چلی غذا۔
آش پکانا (۱۔ محاورہ) (۱۱) شوربا پکانا (۲) کسی کے خلاف سازش کرنا۔
۱۳) ٹھیک بنانا۔ درست کرنا۔ بلیغ نکلانا۔
آش پلاؤ (ف۔ ا۔ ند) ایک قسم کا جو کھاؤ جو مریض کو دیا جاتا ہے۔
آش بچو (ف۔ ا۔ ند) جو کھاؤ جو بچوں کو دیا جاتا ہے۔
آشا (آ۔ شا) (اس۔ مٹ) امید۔ آرزو۔ تمنا۔ خواہش۔
آشام (آ۔ شام) (ف۔ ص) [پینے والا۔ امرکات میں بطور لاشع استعمال
سہ ہونا ہے جیسے خون آشام
آشینی (آش۔ نی) (ف۔ مٹ) [صلح۔ دوستی۔ اتفاق۔ میل۔ ملاپ۔
آشتم (آش۔ تم) (اس۔ ا۔ ند) (۱) ریشیوں اور سادھوؤں کے رہنے کی جگہ
مٹھی۔ مٹھ۔ مکان (۲) بھونیر ہی جو کسی خوشی کے موقع پر بنائی جاتے (۳)
مدد۔ سکول۔ کالج (۴) جنگل۔ دیتوں کا جھنڈ ۱۵۱ برہمن کی زندگی
کا ایک حصہ۔

آشفقتی (آ۔ شفت۔ ت۔ گی) (ف۔ مٹ) (۱) پریشانی۔ پرانگندگی (۲)
جیرانی (۳) دیوانہ پن۔
آشفقت (آ۔ شفت۔ تہ) (ف۔ ص) [پریشان۔ سراسیمہ۔ پرانگندہ۔ بدحواس
جمع۔ آشفقتگان۔
آشفقت بیان (ف۔ ص) [یادہ گو۔ فضول باتیں کرنے والا۔
آشفقت بیانی (یادہ گوئی۔ گواس۔
آشفقت حال۔ آشفقت دل۔ آشفقت خاطر (ف۔ ا۔ ند) پریشان حال
خیراب۔ حسرت۔ گناہتہ) عاشق۔

آشفقت حالی (ف۔ مٹ) [پریشان حالی۔ پرانگندگی۔
آشفقت سمر (ف۔ ص) [سودا۔ دیوانہ۔ پاگل۔
آشفقت سمری (ف۔ مٹ) [دیوانی۔ جنون۔ پاگل پن۔
آشفقت طبع۔ آشفقت مزاج (ف۔ ص) [پریشان خاطر۔
آشفقت مواف (ف۔ ص) (۱) جس کے بال بکھرے ہوئے ہوں (۲)
غلیظ۔ پریشان حال۔
آشفقت نوا (ف۔ ص) [جس کی آواز سے پریشانی کا اظہار

سہ ہونا ہو۔
آشفقت نوا (ف۔ مٹ) [پریشان کر دینے والا۔ نالہ و فریاد پریشانی
کا اظہار۔
آشکار۔ آشکارا (آش۔ کار) (آش۔ کا۔ سا) (ف۔ ص) [ظاہر بنایا
کھلا ہوا۔ واضح۔ فاش۔
آشکارا کرنا (۱) ظاہر کرنا۔ پردہ اٹھانا۔ بے حجاب کرنا۔

آشکارا ہونا۔ کھلنا۔ ظاہر ہونا۔ فاش ہونا۔
آشمال (آش۔ مال) (ف۔ ا۔ ند) (۱) نوکر چاکر۔ خدمت کار۔ ملازم
(۲) کمینہ۔ نالائق۔ (ف)

آشمتا (آش۔ متا) (ف۔ ص) [مٹ۔ مٹ] (۱) واقف کار۔
شنا (۲) جان پہچان والا۔ ملاقاتی (۳) غیر مرد یا عورت جو
ایک دوسرے سے ناجائز تعلق رکھے۔ جمع۔ آشنایان۔
آشنا پرست (ف۔ ص) (۱) دوست کو پوجنے والا (۲) یار کی
قدر کرنے والا۔ سچا دوست۔
آشنا ہو جانا (۱) محاورہ (۱) واقف ہو جانا۔ مایوس ہو جانا۔ دوست
بن جانا۔

آشنائی (آش۔ نائی) (ف۔ ا۔ ند) (۱) [مٹ۔ ا۔ مٹ] (۱) شناسائی۔ ملاقات (۲)
دوستی۔ محبت (۳) مرد و عورت کا ناجائز تعلق۔
آشنائی پھوٹنا (۱) محاورہ (۱) ملاقات ترک ہونا۔
آشنائی کا جھوٹا (۱) [ص۔ ص] (۱) جھوٹی دوستی کرنے والا۔ بناہ نہ کر سکنے والا
لے وفا۔

آشنائی کا سچا (۱) [ص۔ ص] (۱) دوستی میں پورا۔ وہ شخص جو دوستی بناہ سکے۔
آشنائی کرنا (۱) محاورہ (۱) دوستی کرنا (۲) آنکھ لڑانا۔
آشنائی ملانا (۱) سبق (۱) [مٹ۔ ا۔ مٹ] (۱) دوستی سبب تک ہے۔ مطلب دوست
اور خود عرض کے متعلق کہتے ہیں۔

آشنائی بنانا (۱) محاورہ (۱) دوستی اور محبت میں وفادار رہنا۔
آشنائی بھٹنا (۱) محاورہ (۱) محبت قائم رہنا۔

آشوب (آ۔ شوب) (ف۔ ا۔ ند) (۱) [مٹ۔ ا۔ مٹ] (۱) جل۔ فتنہ۔ و فساد۔ پریشانی
شور۔ غوغا (۲) کھیڑ۔ طوفان۔ عذر۔ بلوہ (۳) آنکھ دکھنا۔
آشوب الہی (ف۔ ا۔ ند) [دنیا کی فکریں۔
آشوب اٹھانا (۱) محاورہ (۱) فتنہ و فساد برپا کرنا۔
آشوب چشم (ف۔ ا۔ ند) [آنکھ دکھنا۔
آشوب زمانہ (روزگار، زمانہ، عالم، ریلے کی پہل، زمانے کا فتنہ۔
خور۔ خزر۔ چنگا مرد، دکن بیڑ، مستوق۔

آشوب گاہ (ف۔ ا۔ مٹ) [فتنہ و فساد کا مقام۔
آشوب مختصر (ف۔ ع۔ ا۔ ند) (۱) ہنگامہ مختصر (۲) بہت زیادہ شور و مہنگا۔
آشوبیدہ (آ۔ شوبی۔ ہ) (ف۔ ص) [پریشان۔ حیران۔
آشوبان (آش۔ یان) (ف۔ ا۔ ند) [گھونسلہ۔ شبنم۔
آشیاں اٹھانا (۱) محاورہ (۱) گھونسلہ پھوڑنا۔ (۲) جگہ تبدیل کرنا۔
آشیاں ماندھنا (۱) محاورہ (۱) آشیاں بنانا۔ آشیاں چھانا۔ آشیاں کرنا۔
آشیاں گھونسلہ بنانا۔
آشیاں (آش۔ یا۔ نہ) (ف۔ ا۔ ند) [آشیاں۔ گھونسلہ۔
آشیر باد (آ۔ شیر۔ باد) (ہ۔ ا۔ مٹ) [دعا سے خیر۔

اص

آصف (آ-صف) (عبرانی -۱- مذ) ۱۱ حضرت سلیمان کے ذریعہ کانام
 (۲) مجازاً ہر لائق وزیر (۳) جمع کرنا - ضبط کرنا۔
 آصف الدولہ (ع-۱- مذ) اودھ کے ایک ادب نواز اور فیاض
 حکمران کا نام۔
 آصف جاہ (ن-۱- مذ) آصف کے مرتبے والا (۲) بعض امراء کا لقب۔
 آصف خانی - ایک قسم کا شلو کہ یاد اسگٹ۔
 آصفی - آصفیہ (آ-ص - آئی) (آ-ص - فی - پیر) (ف - صف) [آصف
 کی طرف منسوب۔

پھیلی ہوئی گود۔
 آغوش کشتائی - گود پھیلنا - گود پھیلانا۔
 آغوش رکھولنا (۱) محاورہ گود پھیلانا۔
 آغوش گرم کرنا (۱) محاورہ (۱) گود میں آنا (۲) پیار سے گود میں لینا۔
 آغوش لبریز ہونا (۱) محاورہ گود کا بھرا ہونا۔
 آغوش لحد میں ہونا (۱) محاورہ مرجانا - قبر میں دفن ہونا۔
 آغوش مادر میں سونا (۱) محاورہ (۱) مال کی گود میں سونا (۲) آرام اور
 چین کی حالت میں سونا۔
 آغوش میں آنا (۱) محاورہ گود میں آنا - ہم کنار ہونا۔
 آغوش میں رہنا (۱) محاورہ پہلو میں رہنا (۲) پاس رہنا۔
 آغوش میں لینا (۱) محاورہ محبت سے بغل میں لینا - شوق سے بغیر ہونا۔
 آغوش وا ہونا (۱) محاورہ گود کھلنا۔
 آغوش (آ-غوش) (ف - ا - مٹ) دودھ پینے بچے کی آواز۔
 آغوش غلط، دودھ پی کر میاں ہونے سے (۱) محاورہ دودھ پلانے
 والی اناجوں کو یہ کلمہ گنہ گنہ کھلاتی بھلاتی اور دودھ پلاتی ہیں۔
 آغوش کرنا - دودھ پینے بچے کا آواز نکالنا۔

آ-ع

آغا (آ-غا) (ت-۱- مذ) (۱) آقا - صاحب - مالک - خداوند (۲)
 بڑا بھائی (۳) کالیوں اور مغلوں کا خطاب۔
 آغامیری دانی سب سے کبھی کبھائی (۱) مثل (۱) اس عورت کے متعلق
 کہتے ہیں جو سب گنوں پوری ہو - نہایت چالاک اور عیار۔
 آغامینا (۱) مٹ (۱) بنگالہ کی مینا جس کے منہ سے آغا بہت صاف
 نکلتا ہے (۲) اودھ لڑکی جو بیاری بیاری بائیں کرے - (۳) خوش آواز
 خوش گلو۔

آغاز (آ-غا-ز) (ز-ف-ا- مذ) شروع - ابتدا - عنوان۔
 آغاز انجام جاننا (۱) محاورہ اول و آخر کا علم ہونا۔
 آغاز انجام نہ سوچنا (۱) محاورہ آگ کا پتھما نہ دیکھنا - بے سوچے سمجھے کام
 کر بیٹھنا - نتیجہ کا خیال نہ رکھنا۔
 آغاز بد کا انجام بد ہے (۱) مثل جس کام کی ابتدا بُری ہو اس کی انتہا
 بھی بُری ہوتی ہے۔
 آغاز کار (ف - ا - مذ) کسی کام کی ابتداء - شروع۔
 آغاز کرنا - شروع کرنا - ابتدا کرنا - پہل کرنا۔
 آغائی (آ-غا-ئی) (ع-۱- مذ) وہ بابا جو باپ سے بچایا جائے۔ مثلاً
 سہ چنگ و باب وغیرہ۔
 آغشتہ (آ-غش - ن) (ت-ف-صف) ترکہ ہوا - آگودہ۔
 آغشتہ خون (ف - صف) خون میں گھل گیا ہوا - خون میں ڈوبا ہوا - ناکام
 آغوش (آ-غوش) (ف-غوش) (ف-ا- مذ) مٹنا گود - بغل - کنار۔
 آغوش آباد کرنا (۱) محاورہ گود میں آنا - گود گرم کرنا۔
 آغوش آباد ہونا (۱) محاورہ گود گرم ہونا - محبوب بغل میں ہونا۔
 آغوش بھرنا (۱) محاورہ گود میں بھر پور آنا - عورت کا اولاد والی ہونا۔
 آغوش پھیلانا (۱) محاورہ گود میں لینے کو پھیلنا۔
 آغوش خانی کرنا (۱) محاورہ (۱) گود سے نکل جانا (۲) کنارہ کشی کرنا۔
 آغوش خالی ہونا (۱) محاورہ کسی کا گود سے نکل جانا (۲) بچہ مرجانا۔
 آغوش کا پروردہ - گود کا پالا - گودوں میں پرورش کیا ہوا - اولاد - ذرت
 آغوش (کشاہ) (کشورہ) [بغیر اضافت] گود پھیلانے ہوئے (۲) (باضا)

آف

آفات (آ-فات) (ع-۱- مٹ) آفت کی جمع - مصیبتیں۔
 آفات (آسمانی) سماوی - آسمانی حادثات - غضب کی آمدھی - طوفانی
 بارش - بجلی - اوسے - پالا - برفباری وغیرہ۔
 آفات ارضی (ع-ف-مٹ) زمین سے پیدا ہونے والی مصیبتیں - مثلاً
 سیلاب - آتش فشاں وغیرہ۔
 آفاق (آ-فا-ق) (ع-۱- مذ) (۱) آفت کی جمع - آسمان کے کنارے (۲) عالم
 سنا - رنگ - دنیا - جہاں - اردو میں (احسن معنی ہے)۔
 آفاق گیر (ع-ف - صف) (ع-۱- مذ) عالمگیر - دنیا کو فتح کرنے والا
 (۲) دنیا پر بچھا جانے والا۔
 آفاتی (آ-فا-ئی) (ع-صف) ساری دنیا کا - عالمگیر۔
 آفت (آ-فت) (ع-۱- مٹ) (۱) مٹنا - مصیبت - بلا (۲) فتنہ - ظلم -
 قسم (۳) مشکل (۴) غضب الہی - دبا - فحظ وغیرہ (۵) ناسانی - زبردستی -
 (۶) ناگوار طبع (۷) شور و غوغا - فتنہ - آغوش (۸) عتاب - غصہ (۹) (صف)
 شوخ - چالاک - عیار - فتنہ انگیز - جمع - آفات۔
 آفت آنا (۱) محاورہ (۱) مصیبت پڑنا (۲) وبا پھیلنا - فحظ آنا۔
 آفت اٹھانا (۱) محاورہ (۱) مصیبت جھیلنا - تکلیف برداشت کرنا (۲) نکل
 کرنا - فساد برپا کرنا۔
 آفت پڑنا (۱) محاورہ (۱) فتنہ زل ہونا - مصیبت آنا - (۲) صدمہ پہنچنا۔
 آفت توڑنا (۱) محاورہ (۱) غصے ہونا (۲) ظلم کرنا - غضب ڈھانا
 آفت ٹالنا (۱) محاورہ مصیبت سے بچانا - مشکل آسان کرنا۔
 آفت ٹالنا (۱) محاورہ مصیبت دور ہونا۔

آغا (آ-غا) (ت-۱- مذ) (۱) آقا - صاحب - مالک - خداوند (۲)
 بڑا بھائی (۳) کالیوں اور مغلوں کا خطاب۔
 آغامیری دانی سب سے کبھی کبھائی (۱) مثل (۱) اس عورت کے متعلق
 کہتے ہیں جو سب گنوں پوری ہو - نہایت چالاک اور عیار۔
 آغامینا (۱) مٹ (۱) بنگالہ کی مینا جس کے منہ سے آغا بہت صاف
 نکلتا ہے (۲) اودھ لڑکی جو بیاری بیاری بائیں کرے - (۳) خوش آواز
 خوش گلو۔
 آغاز (آ-غا-ز) (ز-ف-ا- مذ) شروع - ابتدا - عنوان۔
 آغاز انجام جاننا (۱) محاورہ اول و آخر کا علم ہونا۔
 آغاز انجام نہ سوچنا (۱) محاورہ آگ کا پتھما نہ دیکھنا - بے سوچے سمجھے کام
 کر بیٹھنا - نتیجہ کا خیال نہ رکھنا۔
 آغاز بد کا انجام بد ہے (۱) مثل جس کام کی ابتدا بُری ہو اس کی انتہا
 بھی بُری ہوتی ہے۔
 آغاز کار (ف - ا - مذ) کسی کام کی ابتداء - شروع۔
 آغاز کرنا - شروع کرنا - ابتدا کرنا - پہل کرنا۔
 آغائی (آ-غا-ئی) (ع-۱- مذ) وہ بابا جو باپ سے بچایا جائے۔ مثلاً
 سہ چنگ و باب وغیرہ۔
 آغشتہ (آ-غش - ن) (ت-ف-صف) ترکہ ہوا - آگودہ۔
 آغشتہ خون (ف - صف) خون میں گھل گیا ہوا - خون میں ڈوبا ہوا - ناکام
 آغوش (آ-غوش) (ف-غوش) (ف-ا- مذ) مٹنا گود - بغل - کنار۔
 آغوش آباد کرنا (۱) محاورہ گود میں آنا - گود گرم کرنا۔
 آغوش آباد ہونا (۱) محاورہ گود گرم ہونا - محبوب بغل میں ہونا۔
 آغوش بھرنا (۱) محاورہ گود میں بھر پور آنا - عورت کا اولاد والی ہونا۔
 آغوش پھیلانا (۱) محاورہ گود میں لینے کو پھیلنا۔
 آغوش خانی کرنا (۱) محاورہ (۱) گود سے نکل جانا (۲) کنارہ کشی کرنا۔
 آغوش خالی ہونا (۱) محاورہ کسی کا گود سے نکل جانا (۲) بچہ مرجانا۔
 آغوش کا پروردہ - گود کا پالا - گودوں میں پرورش کیا ہوا - اولاد - ذرت
 آغوش (کشاہ) (کشورہ) [بغیر اضافت] گود پھیلانے ہوئے (۲) (باضا)

آفت ٹوٹنا (۱) محاورہ مصیبت پڑنا۔ صدمہ یا بلا نازل ہونا (۲) جھگڑنا ہونا۔
 آفت جان (ع۔ ف۔ ص) جان کا روگ۔ بلا سے جان (۲) مجازاً معشوق۔
 آفت جان پر لینا (۱) محاورہ گوکہ سہنا۔ مصیبت اٹھانا۔
 آفت جھیلنا (۱) محاورہ مصیبت برداشت کرنا۔ صدمہ سہنا۔
 آفت خیزان (ع۔ ص) آفت برپا کرنے والا۔ فساد اٹھانے والا۔
 آفت ڈالنا (۱) محاورہ بلا نازل کرنا۔ مصیبت ڈالنا۔
 آفت ڈھکانا (۱) محاورہ (۱) قیامت برپا کرنا (۲) ستم توڑنا (۳) ہنگامہ کرنا۔ شور کرنا۔
 آفت رسیدہ (ع۔ ف۔ ص) مصیبت زدہ۔ دکھیا۔
 آفت سر پر لینا (۱) محاورہ مصیبت اپنے ذمے لینا۔ جھگڑا مول لینا۔
 آفت جھگڑے پتہ میں پڑنا۔
 آفت سہنا۔ مصیبت سہارنا۔ دکھ برداشت کرنا۔
 آفت کا پر کال (ع۔ ف۔ ص) ستورخ و شنگار۔ طرز (۳) شہر پر عیاں۔
 آفت کا لٹکھڑا (۱) محاورہ غضب کا پٹلا۔ بد ذات۔ شہر پر۔ عیار
 آفت کا مارا (۱) محاورہ ستم زدہ۔ مصیبت کا شکار۔
 آفت کی (تابع فعل) انتہا درجہ کی۔ بہت زیادہ۔ بے حد۔
 آفت کی (پڑیا) پلوٹ (۱) منٹ (۲) عیار۔ دغا باز۔ تشریح۔ چالاک
 آفت چمکانا (۱) محاورہ نل چمکانا (۲) غضب ڈھکانا۔ (۳) ڈانگ کرنا۔
 آفت میں پھنسا (۱) محاورہ غضب میں آنا۔ مصیبت میں پھنسا۔
 آفت میں جان آنا (۱) محاورہ اہمیت مشکل درپیش آنا۔ بہت مصیبت ہونا
 آفت میں مبتلا ہونا (۱) محاورہ ارج و غم میں مبتلا ہونا۔ بلاؤں میں گھبرنا۔
 عذاب میں پڑنا۔
 آفت سے (۱) محاورہ غضب ہے۔ قیامت ہے۔ بڑا چالاک اور عیار
 رہے۔ نہایت شہر اور فتنہ انگیز ہے۔ بڑا ذہین ہے۔
 آفتاب (آف۔ تاب) (ع۔ ف۔ مذ) (۱) سورج (۲) دھوپ (۳) شراب کا
 پیالہ (۴) نجف کا ایک پتہ (۵) کنیت ایک تے زمانہ۔ لاجواب جس کا
 تثنائی نہ ہو۔ معشوق۔
 آفتاب آمد دلیل آفتاب (ع۔ ف۔ ص) اظہار ہیات کے ثبوت کی ضرورت نہیں
 آفتاب برآمد ہونا (۱) محاورہ سورج کا نکلنا۔ صبح ہونا۔
 آفتاب برسر دیوار (ع۔ ف۔ مذ) (۱) محاورہ زوال کے ٹھہرایا۔
 آفتاب بنا دینا (۱) محاورہ درجہ بلند کرنا۔ مرتبہ اونچا کرنا۔
 آفتاب پرست (ع۔ ف۔ ص) (۱) آفتاب کی پرستش کرنے والا (۲) نیلوفر کا
 پھول (۳) سرگرم (۴) سورج مکھی۔
 آفتاب ڈھلنا (۱) محاورہ سورج کا وسط آسمان سے مغرب کی طرف
 ٹھکانا۔ دن کا زوال شروع ہونا۔
 آفتاب سر پر آنا (۱) محاورہ اوپر ہونا۔ بارہ نیچے کا وقت ہونا۔
 آفتاب سر کوٹہ (۱) ڈوبنے کے قریب آفتاب (۲) کنیت امرنے کے
 قریب۔
 آفتاب سوا نبرے پر آنا (۱) محاورہ (۱) قیامت آنا۔ دھوپ کی تیزی

بہت بڑھ جانا۔
 آفتاب غروب ہونا (۱) محاورہ سورج ڈوبنا۔ شام ہونا۔
 آفتاب کا مغرب سے نکلنا (۱) محاورہ مسلمانوں کا امتقاد دینے کے
 قیامت کے قریب آفتاب مغرب سے طلوع ہوگا۔ قرب قیامت۔
 قیامت آنا۔
 آفتاب کو (چرخ) دیا دکھانا (۱) محاورہ تجربہ کار آدمی کو کام کے
 ڈھنگ بتانا۔ قابل کے سامنے ناقابل کا سخی بکھارنا۔
 آفتاب لب بام (۱) قریب غریب آفتاب (۲) نہایت بڑھنا۔
 آفتاب محشر (۱) قیامت کے دن کا سورج۔ وہ سورج جو اہل اسلام
 کے اعتقاد میں قیامت کے دن سوا نبرہ پر ہوگا (۲) نہایت گرم۔
 نیز سورج (۳) معشوق۔ نہایت حسین بخوبی صورت۔
 آفتاب نصف النہار پر ہونا (۱) محاورہ دوپہر ہونا (۲) اوج کمال
 پر ہونا۔
 آفتابہ (آف۔ تابہ) (ع۔ ف۔ مذ) ڈھکنے دار اور دستہ لگا ہوا ٹوٹا۔
 آفتابہ لے کر کھڑے ہونا (۱) محاورہ منہ ماتھ دھلانے کے واسطے پانی
 لے کر کھڑا ہونا (۲) غلام بنا کر خدمت گزار بننا۔
 آفتابی (آف۔ تابی) (ع۔ ف۔ ص) (۱) آفتاب سے منسوب (۲) وہ چیز
 جو دھوپ میں خشک ہوتی ہو۔ (۳) گول۔ مدور (۴) چمک دار (۵) امت
 ایک قسم کی آتش بازی۔
 آفتابی چہرہ (ع۔ ف۔ مذ) گول چہو۔
 آفتابی دائرہ۔ بالکل گول دائرہ (دائری) کی دو قسمیں ہیں۔ آفتابی اور رضوی
 رضوی دائرہ انڈے کی شکل کا ہوتا ہے۔
 آفتابی گلقدار (ع۔ ف۔ مذ) وہ گلقدار جسے دھوپ میں رکھ کر تیار کیا گیا ہو۔
 آفریدہ کار (آف۔ ریدہ کار) (ع۔ ف۔ ص) [پیدا کرنے والا خان۔
 آفریدہ گان (آف۔ ریدہ گان) (ع۔ ف۔ ص) [آفریدہ کی جمع۔ پیدا کیے ہوئے
 مخلوق۔
 آفریدہ (آف۔ ری۔ وہ) (ع۔ ف۔ ص) [پیدا کیا ہوا مخلوق۔
 آفریدی (آف۔ ری۔ دی) (ع۔ ف۔ مذ) چٹانوں کی ایک قوم۔
 آفریں (آف۔ ریں) (ع۔ ف۔ مذ) [شاہنشاہ۔ گلہ نشین و مبارک باد۔
 واہ و ارجا۔ کیا کہنا۔
 آفریں باد برس ہمت مراد نہ تو (ع۔ ف۔ مقولہ) تیری مردانہ ہمت پر
 شاہنشاہ سے۔
 آفریں صد آفریں (ع۔ ف۔ ص) [کلمہ تحسین] واہ و ارجا۔ صد رحمت مدح و ذم
 دونوں کے لیے۔
 آفریں کرنا (۱) محاورہ شاہنشاہی دینا۔ واہ و اکرنا۔ تحسین متا نش کرنا۔ ہر لہنا
 آفریں سے کیا کہنا ہے۔ شاہنشاہ سے۔ طرزاً بھی کہتے ہیں۔
 آفریش (آف۔ ری۔ نش) (ع۔ ف۔ مذ) [پیدا کنش۔ مخلوق۔ دنیا۔
 آفریندہ (آف۔ ری۔ زن۔ وہ) (ع۔ ف۔ ص) [پیدا کرنے والا (مراد
 خداوند تعالیٰ)
 آفس (Office) (آف۔ فس) (ع۔ ف۔ مذ) (۱) دفتر (۲) فرض منصبی

سر اور بے ذائقگیں جو زندگی کے لیے ضروری ہے۔
 آگ (آگ) [ع. صفت] کھلنے والا۔ جمع آگ۔ آگین۔
 آگ (آگ) [ع. صفت] کھلنے والا۔ جمع آگ۔ آگین۔
 آگ (آگ) [ع. صفت] کھلنے والا۔ جمع آگ۔ آگین۔
 آگ (آگ) [ع. صفت] کھلنے والا۔ جمع آگ۔ آگین۔

آگ

آگ (آگ) [ع. صفت] کھلنے والا۔ جمع آگ۔ آگین۔
 آگ (آگ) [ع. صفت] کھلنے والا۔ جمع آگ۔ آگین۔
 آگ (آگ) [ع. صفت] کھلنے والا۔ جمع آگ۔ آگین۔
 آگ (آگ) [ع. صفت] کھلنے والا۔ جمع آگ۔ آگین۔

آگ (آگ) [ع. صفت] کھلنے والا۔ جمع آگ۔ آگین۔
 آگ (آگ) [ع. صفت] کھلنے والا۔ جمع آگ۔ آگین۔
 آگ (آگ) [ع. صفت] کھلنے والا۔ جمع آگ۔ آگین۔
 آگ (آگ) [ع. صفت] کھلنے والا۔ جمع آگ۔ آگین۔

آگ (آگ) [ع. صفت] کھلنے والا۔ جمع آگ۔ آگین۔
 آگ (آگ) [ع. صفت] کھلنے والا۔ جمع آگ۔ آگین۔
 آگ (آگ) [ع. صفت] کھلنے والا۔ جمع آگ۔ آگین۔
 آگ (آگ) [ع. صفت] کھلنے والا۔ جمع آگ۔ آگین۔

آگ (آگ) [ع. صفت] کھلنے والا۔ جمع آگ۔ آگین۔
 آگ (آگ) [ع. صفت] کھلنے والا۔ جمع آگ۔ آگین۔
 آگ (آگ) [ع. صفت] کھلنے والا۔ جمع آگ۔ آگین۔
 آگ (آگ) [ع. صفت] کھلنے والا۔ جمع آگ۔ آگین۔

مخصوص کام یا خدمت (۳) عہدہ۔ منصب۔
 آفندی (آ۔ فن۔ دی) [ت۔ ۱۔ مذ] صاحب بزرگ۔ محترم۔ مالک عثمانی
 دور میں ترکی میں چھوٹے افسروں کا لقب۔
 آفیسر (Officer) [آ۔ فی۔ سی] [ت۔ ۱۔ مذ] (۱) افسر۔ حاکم۔
 سرحدہ دار (۲) اہل کار۔ عامل۔
 آفیشل (Official) [آ۔ فی۔ شل] [ت۔ ۱۔ مذ] (۱) سرکاری۔ دفتری
 عملہ (۲) اہل کار (۳) باضابطہ۔ مستند [مذ] عہدیدار۔ منصب دار

آق

آقا (آ۔ ق) [ت۔ ۱۔ مذ] (۱) مالک۔ خداوند۔ صاحب (۲) خاوند۔
 شوہر (۳) حاکم۔ افسر جمع آقا بانی۔
 آقائے ولی نعمت۔ خداوند نعمت۔ سرکار۔
 آقائی (آ۔ ق۔ سی) [ت۔ ۱۔ مذ] دیوان خانہ کا دروغ۔

آگ

آگ (آگ) [ع. صفت] کھلنے والا۔ جمع آگ۔ آگین۔
 آگ (آگ) [ع. صفت] کھلنے والا۔ جمع آگ۔ آگین۔
 آگ (آگ) [ع. صفت] کھلنے والا۔ جمع آگ۔ آگین۔
 آگ (آگ) [ع. صفت] کھلنے والا۔ جمع آگ۔ آگین۔

آگ (آگ) [ع. صفت] کھلنے والا۔ جمع آگ۔ آگین۔
 آگ (آگ) [ع. صفت] کھلنے والا۔ جمع آگ۔ آگین۔
 آگ (آگ) [ع. صفت] کھلنے والا۔ جمع آگ۔ آگین۔
 آگ (آگ) [ع. صفت] کھلنے والا۔ جمع آگ۔ آگین۔

آگ (دانا) دانا (۱) محاورہ) سوز و گداز ہونا (۲) جلن ہونا (۳) دشمنی ہونا۔
 آگ دیکھیے بھٹوکا۔ دیکھیے آگ بگولا۔
 آگ بھری ہونا (۱) محاورہ) (۱) سوز و گداز ہونا (۲) جلن ہونا (۳) دشمنی ہونا۔
 (۴) گرم مزاج ہونا (۵) پرجوش ہونا (۶) آتشک ہونا۔
 آگ بھڑکانا (۱) محاورہ) آگ کو بھڑکانے سے مشتعل کرنا (۲) فساد بڑھانا (۳) غصہ دلانا (۴) شوق اور جہت بڑھانا۔
 آگ (بھڑکانا) بھڑک اٹھنا (۱) محاورہ) (۱) شعلہ اٹھنا۔ آگ دکھانا (۲) برا فروخت ہونا (۳) عشق کا دلدار اٹھنا۔ آتش شوق کا بھڑکانا (۴) لڑائی پھیلنا (۵) گرمی اور جلن زیادہ ہونا۔
 آگ بھی نہ کھاؤں (۱) روزمرہ) (ع) کسی چیز سے نفرت کا اظہار کرنے وقت غور میں کہتی ہیں۔
 آگ بانی ایک جگہ نہیں رہ سکتے (۱) مثل اور عیافت چیز ایک ساتھ نہیں رہ سکتیں۔
 آگ بانی کا بیر (۱) مذا آگ اور پانی کی طبیعت میں ضد ہے۔ فطری منافقت۔
 آگ بانی کا کھیل (۱) مذا) (۱) جب کوئی چیز بچانے میں بھڑک جائے تو کہتے ہیں۔ کہ یہ تو آگ بانی کا کھیل ہے (۲) آگ بانی سے جلنے والی ہیں۔
 آگ بانی میں لگانا (۱) جہاں لڑائی نہ ہوتی ہو وہاں لڑائی کر دینا (۲) عیاری و چالابی میں کمال دکھانا (۳) ناممکن بات کرنا۔
 آگ ہر بانی ڈالنا (۱) محاورہ) آگ بھجانا جھکڑا مٹانا۔ فساد ختم کرنا۔
 آگ بتریل (ٹھکانا) ڈالنا (۱) مثل) (۱) آگ کو بھڑکانا (۲) جھکڑے کو اور زیادہ کرنا۔ غصے کو تیز کرنا۔
 آگ پر لٹانا (۱) محاورہ) بے حد بے قرار کرنا۔ بہت جلانا۔ تڑپانا۔
 آگ پر کوشنا (۱) محاورہ) بہت بے قرار ہونا۔ تڑپنا (۲) رشک و حسد سے جلنا۔
 آگ پڑنا (۱) دھوپ میں تیزی ہونا۔ گرمی ہونا۔
 آگ بھیا لگنا (۱) محاورہ) بھوٹ بولنا۔ جھٹی کرنا۔ بہتان لگانا۔
 آگ پھونکنا (۱) محاورہ) (۱) آگ سلکانا۔ آگ جلانا (۲) سوزش پیدا کرنا (۳) گرمنا۔ بھڑکانا (۴) عشق بھڑکانا (۵) لگائی بھجائی کرنا۔
 آگ پھیلنا (۱) محاورہ) فساد بڑھا کرنا۔ فتنہ اٹھانا۔ رخ بڑھانا۔
 آگ پھیلنا (۱) محاورہ) فساد کھڑا ہونا۔ فتنہ برپا ہونا۔
 آگ ٹھنڈی کرنا (۱) محاورہ) آگ ٹھنڈا (۲) فساد مٹانا۔ غصہ ٹھنڈا کرنا۔
 آگ جاگ اٹھنا (۱) محاورہ) بھی بولی آگ بھڑک اٹھنا (۲) دوبارہ جھکڑا شروع ہوجانا (۳) شوق بڑھ جانا (۴) دامن ہونا۔
 آگ جاگنا (۱) محاورہ) بگلائی ہوئی آگ کا دھب اٹھنا (۲) عشق بھڑک اٹھنا (۳) لوہا رجانے، دھونکنے والے کی ملا جانے (۱) مثل) حکم دینے والا فرما دار سے تعبیر کرنے والے کا قصور نہیں۔
 آگ تلگوں سے لگنا (۱) محاورہ) نہایت غصے ہونا۔
 آگ جگانا (۱) محاورہ) آگ جلانا۔ شوق بڑھانا۔ خواہش تیز کرنا۔
 آگ جوڑنا (۱) محاورہ) ایلے یا لکڑی آپس میں ملا کر آگ سلکانا۔
 آگ جھاڑنا (۱) محاورہ) آگ سے ساکھ دور کرنا۔ ۱۲) چھاتی سے آگ نکالنا۔

آگ (دانا) دانا (۱) محاورہ) انگاروں کو ساکھ وغیرہ سے چھپا دینا (۲) فتنہ مٹانا۔ غصہ دور کرنا۔
 آگ دکھانا (۱) محاورہ) آگ لگانا۔ فیلنے دینا۔ شتاب لگانا۔
 آگ دوڑنا (۱) محاورہ) آگ کا پھیلنا (۲) شورش پھیلنا۔
 آگ دھونا (۱) محاورہ) آگ سے ساکھ دور کرنا۔
 آگ دینا (۱) محاورہ) (۱) جلانا۔ آگ لگانا (۲) مٹانا (۳) چٹا میں آگ دینا۔
 آگ سرد ہونا (۱) محاورہ) (۱) آگ بجھنا (۲) فساد مٹنا (۳) شوق نہ رہنا۔
 آگ سلکانا (۱) محاورہ) آگ روشن کرنا (۲) لگائی بھجائی کرنا۔
 آگ سلکانا (۱) آگ جلنا۔ آگ سے دھواں نکلنا۔ سوز بھڑکنا۔ جلنا۔
 آگ سے پانی ہوجانا (۱) محاورہ) غصہ دور ہوجانا۔ خفگی جاتی رہنا۔
 آگ کا باغ (۱) مذا) (۱) سنار کا آتش دان (۲) آتش بازی (۳) آتش فرود جو حضرت ابراہیم کے لیے باغ بن گئی تھی۔
 آگ کا بنا ہونا (۱) محاورہ) نہایت تند خو۔ بہت گرم مزاج۔
 آگ سنلا (۱) مذا) (۱) آگ کا بنا ہونا۔ گرم مزاج۔ آتش کا پر کالہ۔
 آگ کا تپنا آگ کو دھائے (۱) مثل) ہر چیز اپنی اصل کو جاتی ہے۔
 آگ کا پتنگا (۱) مذا) سزاوارہ چنگاری۔ جلنا ہوا کوئلہ۔
 آگ کا پر کالہ (۱) آگ کا پتنگا۔ انگار (۲) کناہینہ) معشوق۔
 آگ کا جلا آگ ہی سے اچھا ہوتا ہے (۱) مثل) آگ کے جلے کو سینکا۔
 آگ سفید ہونا ہے۔ علاج بائبل (۲) جس نے دکھ دیا اسی سے آرام ملتا ہے۔
 آگ کا کھیل (۱) آتش بازی (۲) بچانے رینڈھنے کا کام (۳) کیا گری۔
 آگ جلانا (۱) محاورہ) آگ کا ٹھنڈا جانا۔
 آگ کرنا (۱) محاورہ) آگ سلکانا۔ غصہ دلانا۔
 آگ کھانا انکار سے لگنا (۱) مثل) جیسی گرمی ویسی بھرنی۔ جیسا بنا دینا کاٹنا۔ عرض بدی ٹھکانا۔
 آگ کھائے منہ جلے، ادھار کھائے پیٹ جلے (۱) مثل) فرض سے پیٹ بھر کر سخت تکلیف ہوتی ہے۔
 آگ کتنے منہ نہیں جلتا (۱) مثل) کسی چیز کا نام لینے سے اس کا اثر نہیں ہوتا۔ زہر کا نام لینے سے آدمی مرنا نہیں۔
 آگ کے لوگے اٹھنا (۱) محاورہ) (۱) آگ کے شعلے بلند ہونا (۲) جی جلنا۔ (۳) گرم زمین سے پانی پھرنے کے وقت پھیلے اٹھنا۔
 آگ کے مول۔ بہت قیمتی۔ کراں۔
 آگ کاڑنا۔ آگ دانا۔
 آگ لگا (کے) پانی کو دوڑنا (۱) محاورہ) لڑائی کرو اور صلح کے درپے ہونا عیاری دکھانا۔ صلح کی باتیں بنانا۔
 آگ لگانا (۱) آگ دینا۔ جلانا۔ پھونکنا۔ باننا (۲) سوزش پیدا کرنا (۳) لو لگانا۔ شوق بڑھانا۔ سوز جہت بھارنا۔ جوش پیدا کرنا۔ رخ دینا۔
 آگ پھونکنا۔ (۵) رشک دلانا (۶) غصہ دلانا۔ بھڑکانا (۷) جھکڑا اٹھانا۔
 دشمنی پھیلانا (۸) آفت برپا کرنا۔ سزاوارت کرنا (۹) کراں سودا خریدنا (۱۰) نقصان دینا۔ غلبن کرنا (۱۱) ترک کرنا (۱۲) ضائع کرنا۔ غارت کرنا۔ تباہ کرنا۔
 آگ خوب دھوم دھام کرنا (۱۳) کاٹنا۔ خراب کرنا (۱۵) لگائی بھجائی کرنا۔

(۱۶) حقارت کی نظر سے دیکھنا۔ ذلیل سمجھنا

آگ لگاؤ (۱) - (مذ) (۱۱) جلانے والا۔ رنج دینے والا۔ دکھ دینے والا (۲) لڑائی کر دینے والا۔ مفسد۔ فتنہ پرداز۔

آگ لگاؤں۔ نفرت ظاہر کرنے کے لیے۔ کیا کروں جو تلے میں ڈالوں۔ آگ لگائے تماشا دیکھے (۱) - (مثل) اس عیار اور مکار شخص کے متعلق کہتے ہیں جو خدا کے تماشا دیکھے۔

آگ لگ جائے (۱) - (ایک کو سنا) جل جائے۔ اُجڑ جائے۔ غارت ہو۔ لیا میٹ ہو۔ ناپسندیدہ ہو (۲) عورتوں کا نیکہ کلام۔

آگ لگ جانا (لگنا) (۱) جلنا۔ جل اٹھنا۔ شتعل ہونا۔ بھرنے (۲) جھلسنا (۳) غارت ہونا۔ جو تلے میں پڑنا (۴) غائب ہونا۔ کھویا جانا (۵) جان سے جانا (۶) نہایت بھوک لگنا (۷) محبت کا جوڑ مارنا (۸) بے چین ہونا۔ تر پڑنا (۹) رشک ہونا (۱۰) بڑا لگنا (۱۱) رنجیدہ ہونا۔ غلگین ہونا (۱۲) غصہ آنا۔ دل جلنا۔ غصہ بھرنے (۱۳) سوزش ہونا۔ مرچیں لگنا۔ جھلا جانا (۱۴) سُرخ پھولوں کا لگنا۔ بہت سے چراغ جلنا (۱۵) بہت ہنسنا ہونا (۱۶) بدنہی کے ساتھ مشہور ہونا (۱۷) شہرہ ہونا (۱۸) زحمت ہونا۔ دغ ہونا۔

آگ لگنا جھوٹا جو نکلے سولا بھ (۱) - (مثل) جاتی ہوئی چیز میں سے آگ لگتی جھوٹی چیز کی جو نکلے سولا بھجھا جو کچھ مل جائے وہی قیمت ہے۔ آگ لگے (۱) - (بدو دعا) برباد ہو۔ غارت ہو جائے۔

آگ لگے پر بلی کا موت دھونڈنا (۱) - (مثل) بے وقت کوشش کرنا بے سود کام کرنا۔

آگ لگے پر پانی کہاں (۱) - (مثل) غصے میں کچھ بھڑوش اور صبر نہیں رہتا (۲) محبت اور غرض میں عقل اور غرت نہیں رہتی۔

آگ لگے پر کنواں کھودنا (۱) - (مثل) حد مرہ پینے کے بعد اس کا تدارک کرنا۔ فضول اور بے وقت کام کرنا۔

آگ لگے تونچے جل سے، جل میں لگے تونچے کیسے (۱) - (مثل) بچے کی اصلاح کی جاسکتی ہے۔ مگر عادی مجرم کسی طرح درست نہیں ہوتے۔

آگ لگنا۔ یکایک آگ بھڑک اٹھنا۔ مشتعل ہونا۔

آگ لینے آنا (۱) - (مجاورہ) (۱۱) آگ مانگنے آنا (۲) اگر جلدی چلے جانا۔ لے پڑوں واپس ہو جانا۔

آگ لینے آئی گھر والی بن بیٹھی (۱) - (مثل) ذرا سا بہانہ بنا کر قبضہ جالینا۔ آگ ملنا (۱) - (مجاورہ) جلن جاتی رہنا۔ سوزش مٹنا (۲) حسد نہ رہنا۔

آگ میں آگ لگانا (۱) - (مجاورہ) (۱۱) جلے کو اور جلانا۔ رنجیدہ کو اور حد مر دینا۔ (۲) فساد میں اور فساد کرنا (۳) غصے میں اور غصہ دلانا۔

آگ میں پانی ڈالنا (۱) - (مجاورہ) (۱) آگ بجھانا (۲) لڑائی کو دبانانا۔ جھگڑا مٹانا۔ (۳) غصے کو دھیا کرنا۔

آگ میں پڑنا (۱) - (مجاورہ) مصیبت یا بلا میں پھنسا۔ آگ میں جلنا (۱) - (مجاورہ) (۱) آگ میں ڈالنا (۲) رشک دسد میں جلانا (۳) سوزش میں بھونڈنا۔

آگ میں جلنا (۱) - (مجاورہ) (۱۱) آگ میں بھونڈنا (۲) سوزش عشق میں جلنا۔ آگ میں جو چیز پڑی آگ ہے (۱) - (مثل) جیسی صحبت میں رہے گا ویسا ہی

ہو جائے گا۔ ہر کہہ در کان تک رفت تک شد۔

آگ میں (جھونک دینا) جھونکنا (۱) - (مجاورہ) دیدہ دانستہ بلا میں پھنسا دینا۔ آفت میں مبتلا کر دینا۔

آگ میں کود پڑنا (۱) - (مجاورہ) نتیجہ سوچے بغیر کسی مشکل کام کو اپنے ہاتھوں سے لینا۔ زندگی اور موت کا خیال نہ کرنا۔ (۲) مصیبت میں پڑنا۔

آگ میں گرنا (۱) - (مجاورہ) (۱) آگ میں پڑنا۔ آگ میں کودنا (۲) مصیبت یا بلا میں پڑنا۔

آگ میں لوٹنا (۱) - (مضرب) ہونا۔ بے قرار ہونا (۲) رشک کرنا۔

آگ نکالنا چتھا سے آگ بھڑانا۔ آگ پیدا کرنا۔

آگ نہ اُگل لعل اُگل (۱) - (مثل) بری باتیں چھوڑ۔ اچھی باتیں کر۔

آگ پو جانا ہونا (۱) - (مجاورہ) غصے میں لال پیلہ ہونا۔ برفروختہ ہونا۔

آگ (آ) - (کا) (۱) - (۵) - (۱۱) اگلا حصہ۔ سامنا۔ آگاری (۲) جسم کا گلخ (۳) آئندہ (۴) انجام۔ آخرت۔

آگ کا باندھنا (۱) - (مجاورہ) (۱) سامنا رکنا۔ سد راہ ہونا۔

آگ کا بھاری ہونا (۱) - (مثل) ہونا (۲) سرگ پر بھو کرنا یا گڑھا ہونا (۳) راستے کا پرخطر ہونا۔

آگ کا پھینچنا (۱) - (لیاس کا اگلا پچھلا حصہ) (۲) انسان کا پس و پیش (۳) ہر کام کی ابتدا۔ انتہا۔ آغاز و انجام۔

آگ کا پھینچنا (دیکھنا) سوچنا (۱) - (مجاورہ) دورانہ پیشی کرنا۔ آغاز و انجام پر نگاہ رکھنا۔

آگ کا پھینچنا کرنا (۱) - (مجاورہ) پس و پیش کرنا۔ بھڑک کرنا۔ پچھچکانا۔

آگ کا تکا لگنا (۱) - (مجاورہ) خاطر تواضع کرنا۔ آڈھکت کرنا۔

آگ کا دیکھنا پھینچنا (۱) - (مجاورہ) آغاز سوچنا انجام۔ بڑا بھلا بھی نہ سوچا۔ آگ کا دیکھ کے (۱) - (روزمرہ) سامنے دیکھ کر۔ سمجھ بوجھ کے ساتھ۔

آگ کا روکنا (۱) - (مجاورہ) سامنا روکنا (۲) مقابل ہونا۔ سد راہ ہونا (۳) پردہ کرنا۔ آگ کا سنہالنا (۱) - (مجاورہ) (۱) آگے کا بندوبست کرنا۔ فوج یا لشکار کا سامنا روکنا (۲) آئندہ کا بندوبست کرنا۔

آگ کا مارنا (۱) - (مجاورہ) (۱) حملہ کرنا۔ شگست دینا (۲) آگے کی فوج پر حملہ کرنا۔ آگاہ (آ) - (گاہ) (۱) - (ف) - (صف) خبردار۔ واقف۔ جانشن والا۔

آگاہ کرنا (۱) - (مجاورہ) واقف کرنا۔ جنتانا۔ اطلاع دینا۔ بتلانا۔

آگاہی (آ) - (گاہی) (۱) - (مٹ) واقفیت خبر۔ علم۔ واقف کاری۔ آگاہی پانا (۱) - (مجاورہ) خبر پانا۔ واقف ہونا۔

آگاہی دینا (۱) - (مجاورہ) اطلاع دینا۔ خبر دینا۔

آگاہی رکھنا۔ خبر رکھنا۔ واقفیت رکھنا۔

آگاہی (آ) - (گ) (۱) - (ف) - (صف) آگاہ کا مخفی۔

آگاہی (آ) - (گ) (۱) - (ف) - (مٹ) آگاہی کا مخفی۔ آگے (آ) - (گے) (۱) [۵] - (۱۱) دیکھ کے ضد (۲) سامنے۔ مقابل میں (۳) جیتے جی۔

(۴) اس کے پیچھے (۵) آگے (۶) بقدر فرق (۷) شروع میں (۸) زیادہ (۹) گرد میں (۱۰) آئندہ۔ بعد ازیں (۱۱) دوبارہ (۱۲) دوسرا۔ اور۔ پھر (۱۳) علاوہ۔ پر سے۔ (۱۴) پیشتر۔ قبل۔ گزشتہ زمانہ میں (۱۵) ہاتھ کے پیچھے

آگے دیکھنا (۶) سانسے دیکھنا۔ آنکھیں کھولنا (۲) ہوشیار ہونا۔ آگے کی خبر رکھنا۔
 آگے دیکھنے کیا ہوتا ہے (۱)۔ مثل) نہیں معلوم آئندہ کیا ہونے والا ہے۔
 آگے دینے کے (تابع فعل) (۱) سانسے کہے۔ پیش کر کے (۲) جان بوجھ کر دیدہ و دانستہ (۳) دھیل کر۔ زبردستی۔
 آگے ڈالنا (۱)۔ محاورہ (۱) سانسے رکھ دینا۔ درپردہ ڈال دینا (۲) گزارہ کے واسطے بیوہ عورت کی روپیہ سے مدد کرنا۔
 آگے ڈولنا (۱) سانسے پھرنے (۲) بال بچے ہونا۔ صاحب اولاد ہونا۔
 آگے رکھ لینا (۱)۔ محاورہ (۱) نشانہ بنا لینا۔ (۲) ڈھال بنا لینا (۲) قابو کر لینا۔
 آگے رکھنا (۱) سانسے رکھنا (۲) نذر کرنا۔ شہینہ رکھنا۔ آست دینا۔
 آگے رنگ لانا (۱)۔ محاورہ (۱) آئندہ گل کھلانا۔ آئندہ کو خرابی لانا۔
 آگے سے (۱) سانسے سے (۲) پہلے سے۔ ابتدا سے۔
 آگے سے ٹھاننا (۱)۔ محاورہ (۱) پہلے سے ارادہ کرنا (۲) پہلے سے نتیجہ نکالنا۔
 آگے سے روکنا (۱)۔ محاورہ (۱) پہلے سے روک دینا۔ پیش بندی کرنا۔
 آگے سے سوچنا (۱)۔ محاورہ (۱) پہلے سے فکر کرنا۔
 آگے سے گانتھنا (۱)۔ محاورہ (۱) پہلے سے راضی کر لینا۔ پہلے سے یار بنانا۔
 آگے سے بٹانا۔ سانسے سے دور کرنا۔ ایک طرف کرنا۔
 آگے سے تہی آئی سے (۱)۔ مثل) قدیم سے دستور ہے۔ پہلے سے یہ بات چلی آ رہی ہے ہرانی زخم ہے۔
 آگے قدم اڑھنا (۱)۔ محاورہ (۱) پہل کرنا۔ پیش قدمی کرنا۔ ترقی کرنا۔
 آگے قسمت (۱)۔ روز مرہ) آئندہ جو نصیب میں ہو۔
 آگے کا اٹھا۔ جھوٹا۔ پس خوردہ۔ بچا کھا کھانا۔
 آگے کا قدم پیچھے پڑنا (۱)۔ محاورہ (۱) پیچھے ہٹنا (۲) تنزل کرنا۔ گھٹنا (۳) رعب چھانچانا۔ ڈر جانا۔ گھبرانا۔ پھرتا ہو جھنڈا۔
 آگے کرنا (۱)۔ محاورہ (۱) سانسے کرنا (۲) پیش کرنا
 آگے کٹواں پیچھے کھائی (۱)۔ مثل) دونوں طرف سے خطرہ۔ کام کرنے میں بھی خرابی ہے اور نہ کرنے میں بھی۔
 آگے نافرمان (۱)۔ روز مرہ) آگے قسمت۔ آئندہ جو قسمت میں ہو۔
 آگے ناخن نہ پیچھے کھینا۔ سب سے اچھا گھبرا کا گدھا (۱)۔ مثل) جس کا دالی وارث کوئی نہ ہو۔ ناٹھا۔ بھگوتا۔
 آگے نکل جانا (نکلنا) (۱)۔ محاورہ (۱) آگے بڑھ جانا۔ سبقت لے جانا۔
 آگے ہاتھ پیچھے پات (۱)۔ مثل) اس قدر تنگ اور غریب ہے کہ تن پر کپڑا بھی نہیں۔ ایک ہاتھ آگے اور ایک پٹا پیچھے لگا ہوا ہے۔
 آگے ہونا (۱)۔ محاورہ (۱) آگے بڑھنا۔ پیش قدمی کرنا (۲) پروردہ ہونا (۳) درپردہ آنا (۴) مقابلہ کرنا۔
 آگے ہی۔ پہلے ہی۔ اول ہی۔ اول ہی سے۔
 آگیا (آگ۔ یک۔ یا) (۱)۔ مثل) [۱۱] فرمان (۲) ہدایت (۳) اجازت۔ حکم۔ برصحت۔ رضاً۔
 آگیا پالنا (۱)۔ محاورہ (۱) حکم بجالانا۔ فرماں برداری کرنا۔
 آگیا وینا (۱)۔ محاورہ (۱) حکم دینا (۲) اجازت دے دینا۔ ہدایت کرنا۔

پاس۔ قریب۔ پیشی میں۔
 آگے آگے، پیچھے لاہور (۱)۔ مثل) غلط راستے پر پڑے ہیں۔
 آگے آگے (قریب تا کبریٰ) آگے کی تاکید صورت (۲) آئندہ کو زمانہ مستقبل میں۔ رفتہ رفتہ۔ چند روز میں۔
 آگے آگے جلنا۔ کسی کے آگے بڑھ کر قدم رکھنا۔ خدمت میں آگے جلنا۔
 آگے آگے رنگ لانا (۱)۔ محاورہ (۱) آئندہ زیادہ شورش برپا کرنا۔ آگے کو خرابی لانا۔ آئندہ سرٹھانا۔
 آگے آگے گردو، پیچھے پیچھے چیلنا (۱)۔ مثل) جس لیانت کا اُتنا دھڑنا ہے۔
 آگے آگے دینی دینی نئی قابلیت حاصل کرنا ہے۔
 آگے آگے ہونا (۱)۔ محاورہ (۱) پیش پیش ہونا۔ برسر ہونا۔
 آگے آگے (۱)۔ محاورہ (۱) سانسے آنا (۲) نزدیک آنا (۳) سامنا کرنا (۴) اپنٹ ہونا۔
 آگے آگے واقع ہونا۔ پاداش پانا
 آگے آیت (۱)۔ روز مرہ) بات ختم ہوئی۔ مطلب تمام ہوا۔ فقرہ پورا ہوا۔ بس آگے بڑھانا (۱)۔ محاورہ (۱) آگے جلنا۔
 آگے بڑھنا (۱)۔ محاورہ (۱) آگے جلنا (۲) لڑنے کے واسطے سانسے ہونا (۳) بڑھ جانا۔ دور نکل جانا (۴) سبقت سے جانا (۵) پیشوائی کرنا (۶) چلا جانا۔
 آگے پانا (۱)۔ محاورہ (۱) کیے کی سزا پانا۔ تکلیف اٹھانا۔
 آگے پیچھے (تابع فعل) (۱) سانسے اور عقب میں (۲) یکے بعد دیگرے لگاتار۔ (۳) دیر سویر (۴) خلاف قاعدہ۔
 آگے پیچھے جلنا (۱)۔ محاورہ (۱) ایک کے پیچھے دوسرے کا جلنا (۲) بے ترتیبی سے چلنا۔
 آگے پیچھے سب چل بسیں گے (۱)۔ مثل) سب کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔
 آگے پیچھے نہ ہونا (۱)۔ محاورہ (۱) حق تنہا ہونا۔ بے دارشا ہونا
 آگے پیچھے ہاتھ دھرتے ہونا (۱)۔ محاورہ (۱) ننگ ہونا۔ نہایت مفلس ہونا۔
 آگے جاتے گھٹنے لوٹیں، پیچھے دیکھتے آنکھیں پھوٹیں (۱)۔ مثل) جہاں پر کسی کام کے کرنے اور نہ کرنے دونوں میں خرابی ہو وہاں بولتے ہیں (۲) مجبوری و معذوری۔ نہ ہائے رفتن نہ جائے مامدن۔
 آگے جانا (۱)۔ محاورہ (۱) آگے بڑھنا (۲) راستہ تانا۔ رہنمائی کرنا (۳) سبقت لے جانا۔
 آگے جلنا (۱)۔ محاورہ (۱) آگے بڑھ کر جلنا۔ سبقت سے جانا۔ غالب آنا۔
 آگے خدلا کا نام (۱)۔ محاورہ (۱) خدلا کے نام کے سوا کچھ نہیں (۲) بس خاتمہ ہے (۳) اس کے آگے کچھ نہیں۔
 آگے خیر میں ہے (۱)۔ محاورہ (۱) آئندہ کچھ نہیں ہے۔
 آگے دور پیچھے چوڑ (۱)۔ مثل) ایک کام نام نہیں ہوا کہ دوسرا شروع کر دیا۔
 آگے دھرا ہے (۱)۔ مثل) سانسے رکھنا ہے۔ پیش آنا ہے۔
 آگے دھر لینا، آگے رکھ لینا (۱)۔ محاورہ (۱) سانسے رکھ لینا۔ آگے کر لینا۔
 آگے آنکھ سے اٹھل نہ ہونے دینا (۱)۔ گرفتار کر لینا۔
 آگے دھرتا (۱)۔ محاورہ (۱) سانسے رکھنا۔ درپردہ رکھنا۔
 آگے دیکھ کے (تابع فعل) (۱) سانسے نظر کر کے (۲) سنبھل کر۔ دیکھ بھال کر۔

عورت کا مستننا (۲) جبران ہونا۔
 آلو (ن-۱) [نذ] ایک مشہور ترکاری۔
 آلو بھجرا (ن-۱) [نذ] ایک قسم کا شیریں و ترش پھل جو بھجرا سے منسوب
 آلو بھجرات (۱-۱) [نذ] آلو بھجرا سے لے لیا جتنا ایک ترش میوہ۔
 آلود (آ۔ لودگی) [ن-۱] صف [بظہر] ہوا۔ مرکبات میں بطور لاحقے کے
 استعمال ہوتا ہے جیسے خون آلود۔
 آلودگی (آ۔ لودگی) [ن-۱] [منش] [۱۱] ناپاکی۔ آلائش۔ دنیاوی تعلقات
 آلودہ (آ۔ لودہ) [ن-۱] [ن-۱] [منش] [۱۱] بظہر ہوا۔ بھرا ہوا۔ ناپاک بجنس
 (۲) پھینسا ہوا (۳) گناہ گار۔ پاپی۔ جمع آلودگان۔
 آلودہ دامن۔ آلودہ عصیاں۔ آلودہ گناہ اف۔ صف گناہ گار۔
 آلودہ کرنا۔ بھرتا۔ بظہرنا۔ تہائی میں شامل کرنا۔
 آلو شفا لو (آ۔ لوشف۔ تا۔ لو) [ن-۱] [نذ] لڑکوں کا ایک کھیل جس
 میں ایک لڑکا دوسرے لڑکے کی چڑھی پر سوار ہو کر اس کی دونوں
 آنکھیں اپنے دونوں ہاتھوں سے بند کر دیتا ہے اور باقی لڑکوں میں
 سے ایک لڑکا اس سوار کی پیٹھ کے پیچھے کھڑا ہو کر اپنی جتنی جاہے
 انگلیاں بلا کر گھوڑی سے پوچھتا ہے کہ کتنی انگلیاں کر اس نے انگلیوں کی تعداد
 اتنا بتا کر صحیح بتا دی تو گھوڑی سوار بن جاتی ہے اور پوچھنے والا گھوڑی دڑ
 کھیل اسی طرح جاری رہتا ہے۔
 آلہ (آ۔ لہ) [ن-۱] [ع-۱] [نذ] اوزار۔ ہتھیار۔ راجھ۔ جمع۔ آلات
 آلہ تناسل (۱) نسل برہانے کا اوزار (۲) ذکر۔ عضو تناسل۔ تفضیب
 نیک۔
 آلہ تنقیس (ع-۱) [ن-۱] [نذ] (۱) وہ عضاء جس کے ذریعے سانس لی
 جاتی ہے۔
 آلہ کار (ع-۱) [ن-۱] [نذ] کام کا آلہ۔ ذریعہ۔ وسیلہ۔
 آلے بالے (آ۔ لے۔ با۔ لے) [ن-۱] [نذ] [۱-۵] جیلے۔ حوالے۔ بہانے۔
 ٹال مٹول۔

آ۔م

آم (۱-۵) [نذ] منطقہ حارہ کا ایک مشہور اور لذیذ پھل۔ انبہ۔ اس کی
 بے شمار اقسام ہیں۔
 آم بوڑھا آم کھاؤ اعلیٰ بوڑھا اعلیٰ کھاؤ (۱) [منش] جیسا کہ گے ویسا بھوڑے
 آم پال (راکھنا) ڈالنا۔ ایک خاص طریقے سے گدراٹے ہوئے آموں
 کا کرم چیز میں دہانا تاکہ یک جاسے۔
 آم ٹیکن۔ آم کا پختہ ہو کر ڈال سے گرتا۔
 آم کھوٹنا۔ پختہ آم کا کرم کر کے اس کا رس چوسنا۔
 آم ڈھل جانا۔ آم کا زیادہ ملائم ہو کر بے مزا ہو جانا۔
 آم کا پیک لکنا (۱) محاورہ و سختوں سے پک کر آم پیکنا شروع ہونا۔
 آم کھانے سے کام۔ بابیطر کھنے سے (۱) [منش] اپنے مطلب سے
 مطلب ہے۔ حجت سے عرض نہیں۔

آئین کہنے والے (۱۔ مذ) ایں میں ہاں ملانے والے خوشامدی۔

آ۔ن

آن (۱۔ ۵۔ ۱۔ مٹ) (۱۱) قسم۔ عمدہ (۲) بڑوں کی رسم۔ رواج (۳) ضد۔ ہٹ (۴) عادت خصلت (۵) آرزو۔ خواہش (۶) لاج (۷) شرم۔ جیاہزت حرمت۔

آن توڑنا (۱۔ محاورہ) (۱۱) قول قرار توڑنا۔ قسم توڑ دینا (۲) رسم کے خلاف کرنا۔

آن جانا (۱۔ محاورہ) بات خراب ہونا۔ آبرو جانا۔

آن رہ جانا (۱۔ محاورہ) بات رہ جانا۔ آبرو رہ جانا۔

آن کھان ہو گیا (۱۔ مثل) تباہ ہو گیا۔ برباد ہو گیا۔ عزت جاتی رہی۔

آن (۱۔ مٹ) (۱۱) شان و شوکت (۲) ادا۔ معشوقانہ چھب (۳) وضع۔ ڈھنگ (۴) غور۔ کھنڈ۔

آن بان۔ شان و شوکت۔ وضع۔ ٹھاٹ۔ بانگین۔

آن بان سے رہنا (۱۔ محاورہ) شان و شوکت سے بسر کرنا۔ ٹھاٹھ سے رہنا۔ وضع بنائے رہنا۔

آن بان والا (۱) شان و شوکت والا۔ ناز و ادا والا۔ (۲) وضع دار۔ غیرت دار۔

آن تان میں پورا ہونا (۱۔ محاورہ) شان و شوکت میں کامل ہونا۔ وضع کا پابند ہونا۔

آن نکلتا (۱۔ محاورہ) معشوقانہ انداز پیدا ہونا۔ حسن و خوبی کا چمکنا۔

آن (۱۔ مٹ) وقت۔ لمحہ۔ لحظہ۔ ساعت۔

آن کا ہمان۔ کوئی دم کا ہمان جلد دینا سے جانے والا۔

آن کی آن میں (تابع فعل) آنا نا۔ ایک لمحہ میں۔ ذرا سی دیر میں۔

آن میں کچھ ہے آن میں کچھ ہے (۱۔ مثل) متلون مزاج ہے۔ گھڑی میں کچھ گھڑی میں کچھ۔

آن واحد میں (تابع فعل) ایک آن میں لھے بھر میں۔

آن (۵) آنا کا مخفف۔

آن پٹنا (۱۔ محاورہ) مصیبت پڑنا۔ بلانا نزل ہونا۔ آہنسا۔

آن پٹنا (۱۔ محاورہ) یکایک آگنا۔ دفعتاً نازل ہونا۔ ایک ایک وارد ہونا۔

(۲) بے کوشش یا بظہن لگنا۔ (۳) ٹوٹ پڑنا۔ جملہ کرنا (۴) مصیبت پڑنا۔

(۵) گرفتار ہونا۔ (۶) کسی کے سر پر بوجھ پڑنا (۷) پناہ میں آنا۔

آن پھینچنا (۱۔ محاورہ) داخل ہونا۔ کنارے لگنا۔ آجانا۔

آن لیتنا (۱۔ محاورہ) آلیٹنا۔ آکر مل جانا۔

آن لیتنا (۱۔ محاورہ) آجانا۔ مل جانا۔

آن (۱۔ مٹ) (۱۱) (نون غنہ) وہ۔

آنجناب (کلمہ تعظیم) جناب والا۔ عالی قدر۔ مخاطب کو بجا مئے آپ کے تعظیماً اس جناب کہتے ہیں۔

آنحضرت۔ آل سرور (کلمہ تعظیم) وہ بزرگ۔ وہ سردار۔ تعظیماً

خدا نغائے۔

آمریت (آ۔م۔ ری بہت) (ع۔ ۱۔ مٹ) [آمریا ڈکٹیٹر کا منصب مطلق العنانی کلی اختیار و اقتدار۔

آبلہ (آ۔م۔ لہ) (۱۔ مذ) [آبلہ۔ ایک ترش پھل۔

آملیٹ (Omelette) (آ۔م۔ بیٹ) [انگ۔ ۱۔ مذ] [انڈوں کا چلا۔ بیازے ہوتے ہیں انڈے۔

آمناسامنا (آ۔م۔ نا۔ سام۔ نا) (۱۔ ۵۔ ۱۔ مذ) [۱۱] مقابلہ۔ مٹھ بھیر (۲) لڑائی۔ باہم سخت دست باتیں۔

آمننا و صدقنا (آ۔م۔ نا۔ و صد۔ وق) [ع۔ ۱۱] ہم ایمان لائے۔ اور ہم نے تصدیق کی (۲) بجا ہے۔ درست ہے۔ ٹھیک ہے۔

آمنے سامنے (۱۔ مذ) [آ۔م۔ نے] [۵] ایک دوسرے کے آگے۔ ایک دوسرے کے مقابل۔

آمنے سامنے ہونا (۱۔ محاورہ) دربرو ہونا۔ مقابل ہونا۔

آموختہ (آ۔م۔ وخت) [ع۔ ۱۔ مذ] [پڑھا ہوا سبق پیکھلا سبق۔

آموختہ (پڑھنا) پھیرنا۔ پڑھے ہوئے کو دہرانا۔

آموختنی (آ۔م۔ وخت۔ نی) [ع۔ ۱۔ مذ] [صف] [یکھنے کے لائق۔ سکھانے کے قابل۔

آموز (آ۔م۔ وز) [ع۔ ۱۔ مذ] [صف] [آموزنی کا صیغہ امر سکھانے والا۔ سکھنے والا۔ (مرکبات میں متصل ہے جیسے سبق آموز)

آموزش (آ۔م۔ وزش) [ع۔ ۱۔ مٹ] [سکھانی۔

آموزش گاہ (۱۔ مٹ) [ع۔ ۱۔ مٹ] [درس گاہ۔ مکتب۔ مدرسہ۔

آموزگار (آ۔م۔ وز۔ گار) [ع۔ ۱۔ مٹ] [صف] [و۔ مذ] [سکھانے والا۔ استاد۔ معلم۔ جمع۔ آموزگان۔

آمیختہ (آ۔م۔ یخت) [ع۔ ۱۔ مٹ] [صف] [ملا یا ہوا۔ مرکب۔

آمیز (آ۔م۔ یز) [ع۔ ۱۔ مٹ] [صف] [ملنے والا۔ ملانے والا (مرکبات میں متصل ہے جیسے آمیز)

آمیزش (آ۔م۔ یزش) [ع۔ ۱۔ مٹ] [ملاوٹ۔ ملوٹی۔

آمیزش ہونا (۱) ایک ذات ہونا (۲) کھل مل جانا۔

آمیزہ (آ۔م۔ یزہ) [ع۔ ۱۔ مٹ] [مٹ] [مرکب مخلول ادواؤں (دویارو سے نائد چیزوں کا اس طرح ملنا کہ وہ ایک ذات ہو جائیں۔ کیمچ۔

آمین (آ۔م۔ یمن) [ع۔ ۱۱] [۱] اسے خدا ایسا ہی ہو۔ خدا دعا قبول کرے۔ (۲) حتم قرآن شریف کی تفریب کی تفریب۔

آمین۔ آمین۔ آمین کا تاکید فقرہ۔

آمین آمین ہونا (۱۔ محاورہ) (۱) امن چین ہونا (۲) خوشیاں مننا۔ مراد برآما۔ آمین اللہ (۱) خدا یوں ہی کرے۔ خدا قبول کرے۔ خدا کی پناہ۔ دُر پناہ۔ خدا نہ کرے۔ نوح۔ نغوذ باللہ۔

آمین پڑھنا (۱۔ محاورہ) حتم قرآن کے بعد جو کچھ دعائے اشعار پڑھے جاتے ہیں انھیں آمین پڑھنا کہتے ہیں۔

آمین کہنا (۱۔ محاورہ) دعائے آمین کے بعد نطق آمین زبان پر لانا یعنی خدا نغائے قبول کرے۔ خدا یوں ہی کرے (۲) قبول کرنا۔ ماننا۔

آنتیں منہ کو آنا (۱- محاورہ) ناک میں دم آنا۔ بیزار ہونا۔ جی اٹکانا۔ نہایت
سختی ناکو اور گزرتا۔

آنتیں مٹنا۔ بھوکا رہنا۔ بھوک کی برداشت نہنا۔

آنت (۱-۵) مٹ (۱۱) متقبلی میں اٹکھٹے اور اٹکلے کے درمیان کی

جگہ (۲) داؤس۔ قبضہ پیچ (۳) دشمنی (۴) گمہ۔ گانٹھ (۵) بولا۔ تھٹھا۔

آنت پڑنا (۱- محاورہ) گمہ پڑنا (۲) دل میں فرق آنا۔ دشمنی ہونا۔

آنت سناٹ (۱- مٹ) سازش۔ توڑ جوڑ۔ باہمی صلاح مشورے۔

آنت لگانا (۱) روک پیدا کرنا (۲) چاندی کو تپا کر کھٹنا کھرا پھاننا

آنت نکلنا۔ دل کا فرق نکلنا۔ دل صاف ہونا۔

آنتی (اک۔ ٹی) (۱- مٹ) (۱۱) گٹھا۔ بولا (۲) سوت یا ریشم کی لکھی۔

(۳) لٹوں کے کھینے کی لگی۔ (۴) کشتی کا ایک بیج جس میں تھانگ اڑا کر

حریت کو جیت کرتے ہیں۔

آنتی دینا (۱) اڑنا مارنا حریت کی ٹانگ میں ٹانگ اڑا کر اسے گرا دینا۔

آنتی کاٹنا۔ کشتی میں آنتی لگنے پر اس کی کاٹ کرنا۔

آنتی (گٹھا مارنا) (۱) مخالفت کی ٹانگ میں ٹانگ اڑانے کا داؤس چلانا۔

(۲) گمہ باندھنا۔

آنتے چھوٹے [ق] جھوڑے میں آنتے سامنے بیٹھ کر ایک کا دوسرے کی

سب کو دوسری پاؤں رکھنا۔

آنت (۱- مٹ) (۱۱) گرمی (۲) آگ کی پیرٹ۔ شعلہ (۳) آگ (۴) تازہ۔

جوش (۵) مادری جوش۔ ماتتا (۶) صدمہ (۷) نقصان۔ ضرر (۸) آبدلی۔

دھار۔ چمک (۹) شہوت۔ جوش (۱۰) مصیبت (۱۱) بھوک کی آگ سہا

آنت آنا (۱- محاورہ) (۱۱) صدمہ پہنچنا۔ چوٹ لگنا (۲) نقصان ہونا (۳) مصیبت۔

آنت دکھانا (۱- محاورہ) گرم کرنا۔ جلانا۔ آگ دکھانا۔

آنت کا کھیل ہے (۱- مذ) آگ کا کام ہے۔

آنت کڑی ہونا (۱- محاورہ) تیز آگ ہونا۔

آنت رکھنا (۱- محاورہ) (۱) تازہ رکھنا (۲) گرم ہونا (۳) لگھلنا۔ گٹھا۔

آنت نہ آنا (۱) صدمہ نہ پہنچنا (۲) نقصان نہ ہونا۔

آنت نہ آنے دینا (۱- محاورہ) (۱) آسیب یا صدمہ نہ پہنچنے دینا (۲) نقصان

یا ضرر نہ ہونے دینا۔

آنتیں نکلنا (۱- محاورہ) شعلے اٹھنا۔

آنتی (آں۔ چل) (۱- مذ) دوپٹے کا سرا۔ اور ٹھنی کا پلو۔ دامن کا

پلو۔ دامن کا کنارہ۔ کھونٹ (۲) پستان۔ چوچی۔

آنتی پڑنا۔ آنتی چھوایا جانا۔ کسی چیز پر آنتی پڑ جانا۔

آنتی پلو (۱- مذ) مفیش کی جھال جو بھاری جوڑوں کے دوپٹے اور ٹھنی

پر وغیرہ کے کناروں پر لٹکتی ہیں۔

آنتی پھاڑنا (۱- محاورہ) (۱) آنتی کترنا (۲) ٹوٹا کرنا۔ جادو کرنا۔ جس

عورت کے بچے جیتے نہ ہوں وہ بچوں والی عورت کا آنتی کتر لیتی ہے

اور اس کو جلا کر کھا لیتی ہے۔ جس سے حسب اعتقاد مسنورات اُس

کے بچے تو مرنے جاتے ہیں اور کھانے والی کے زندہ رہتے ہیں (۳) دلن

کا بے ہالی سے باتیں کرنا۔

پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نام کی جگہ بولتے ہیں۔

اُس دفتر کا ڈو خوردان۔ مثل اُس دفتر کو بیل کھا گیا۔ ایسے چیز کے متعلق

کہتے ہیں جس کا نام دشنام بھی باقی نہ رہا ہو۔

اُس را کر حساب پاک است از محاسبہ حیر پاک (ف۔ مثل) جس

کا حساب صاف ہو اسے پڑنا یا کا خوف نہیں۔

اُس قدر شکست و آں ساتی نما ندان۔ مثل اوہ پیار ٹوٹ گیا

اور وہ پلانے والا نہ رہا۔ وہ مزہ اور لطف جانا رہا۔ وہ زمانہ ہی نہ

رہا، وہ صحیح ہی نہ رہیں۔

آنا (آنا) (۱- مص) [ا] جانا کی ضد۔ آپہنچنا۔ نازل ہونا۔ حاضر ہونا۔ نمودار

ہونا۔ داخل ہونا (۲) واقف ہونا۔ جانا۔ سیکھ لینا (۳) مانگ ہونا۔ رغب

ہونا۔ (۴) دکھنا۔ پڑنا شوب ہونا (۵) دکھ کے لیے مستعمل ہے (۱)

آنا۔ وقت۔

آنا جانا (۱) آمد و رفت (۲) میل ملاپ۔ میل جول۔ ربط ضبط۔

آنا نہ پانی نری پاؤ گھسانی (۱) مثل ایسے کار دوڑ دھوپ بخت کی محنت۔

آنا قانا (آ۔ ن۔ نا۔ ن۔ ن) تابع فعل (۱) ایگی۔ جھٹ پٹ۔

آنا کافی (آ۔ نا۔ کا۔ فی) (۱- مٹ) (۱۱) سنی ان سنی کرنے کی حالت۔

نہ دھیان دینے کی حالت (۲) مثال مٹوں۔ جلد حوالہ۔

آنا کافی (دینا) کرنا (۱- محاورہ) سنی ان سنی کرنا۔ چشم پوشی کرنا۔ درگزر کرنا۔

آنت (۱- مذ) آسم۔

آنتا لدری (آں۔ یا۔ بل۔ دی) (۱- مٹ) [ایک قسم کی سرخ ہلدی۔

آنا ہلدی۔

آنت (۱- مٹ) (۱) انٹری (۲) کنیرہ (۳) لمبی چیز۔

آنت (آنتا) بڑھ آنا (مص۔ مرکب) ایک بیماری جس میں آنت فوٹ

میں آنت آتی ہے اور اس سے آنتی کے خضیوں میں درد پیدا ہوتا ہے۔

آنت بھاری تو مات بھاری (۱) مثل فتورہ مضم سے درد سر ہوتا

ہے۔ پیرٹ کے بگاڑ سے بیماری پیدا ہوتی ہے۔

آنت کی آنت (۱- محاورہ) بہت لمبی چیز۔ طول طویل بات۔

آنتوں کا بل کھلنا۔ بہت سی بھوک کے بعد خوب ڈٹ کر کھانا۔

آنتوں کا کل ہوا اللہ پھلنا (۱- محاورہ) سخت بھوکا ہونا۔

آنتوں میں بل پڑنا (۱- محاورہ) پیٹ میں بل پڑنا۔ پیٹ میں درد شروع

رہنا۔ بھوجانا۔

آنتیں الٹ جانا (۱- محاورہ) تپے ہونا۔ بہت اُبکائیاں آنے سے جی

اور ہتلی ہونا۔

آنتیں شمتنا (۱- محاورہ) بھوکا رہنا۔ بھوک کی برداشت کرنا۔

آنتیں سوکھنا (۱- محاورہ) بھوک کے مارے انتریلوں کا سوکھ جانا۔

نہ نافرستی کرنا۔

آنتیں کوسنی میں (۱) مثل بھوک سے آنتیں فریاد کرتی ہیں۔ بہت زیادہ

بھوک لگی ہے۔ آنتیں گلے میں آنا (۱- محاورہ) مصیبت میں پڑنا۔ بلا

میں مبتلا ہونا۔

خاموش رہنا۔ نہ رونا۔

آنسو توڑ (۱) مذ غیر موسم کی بارش۔ بن رت کا لینہ۔

آنسو ٹھکانا (۱) محاورہ) رونا موقوف ہونا۔ رونا بند ہونا۔

آنسو ٹھکانا (۱) محاورہ) رونا۔

آنسو ٹھیک پڑنا (۱) محاورہ) آنسو گہ پڑنا۔ کسی صدمہ کے اثر سے رو پڑنا۔

آنسو ٹھلنا (۱) محاورہ) اشک رواں ہونا۔ آنکھوں سے پانی جاری ہونا۔

آنسو خشک ہونا (۱) محاورہ) آنسو سوکھنا۔

آنسو ڈالنا (۱) محاورہ) آنسو گرانا۔ رونا۔

آنسو ڈیٹا ہانا (۱) محاورہ) آنکھوں میں آنسو بھر آنا۔

آنسو ڈھال (۱) مٹ) گھوڑوں کی ایک بیماری جس سے ان کی آنکھوں سے ہر وقت پانی بہتا رہتا ہے۔

آنسو کی دھار۔ آنسوؤں کا تار۔ بے درے آنسو نکلنا۔

آنسو کی لڑی (۱) آنسوؤں کا تار (۲) مسلسل آنسو بہنا۔

آنسو گرانا (۱) محاورہ) قائم کرنا۔ برسر دینا۔ رونا (۲) تعزیت کرنا۔

آنسو (گہ پڑنا) کرنا (۱) محاورہ) آنسو ٹھیکے لگنا۔

آنسو گیس (Tear Gas) ایک قسم کی گیس جس سے آنکھ میں جھینسی لگتی ہے اور پانی بننے لگتا ہے۔ غیر قانونی ہجوم کے مظاہرہ کو منتشر کرنے کے لیے پولیس استعمال کرتی ہے۔

آنسو نکل (آنا) پڑنا (۱) محاورہ) آنسو ٹھیک پڑنا۔ بے اختیار آنسو گرنا۔

آنسو نکلنا (۱) محاورہ) آنسو بہنا۔

آنسوؤں سے پیاس نہیں بھتی (۱) مثل) رونے سے دل کی حسرت نہیں نکلتی۔ غم دور نہیں ہوتا۔

آنسوؤں سے نمزدھونا (۱) محاورہ) زار زار رونا۔ بہت رونا۔

آنسوؤں کا تار (بندھنا) چلنا (۱) محاورہ) زار زار رونا۔ زار و قطار رونا۔

آنسوؤں کا تار نہ ٹوٹنا (۱) محاورہ) مسلسل رونا۔

آنسوؤں کا چھالا (۱) مذ) دھچکا لڑو آنسوؤں کی گرمی سے بڑ جائے۔

آنسوؤں کی جھڑی لگنا (۱) محاورہ) مسلسل رونے رہنا۔

آنسوؤں کی سیلی۔ آنسوؤں کا تار۔ آنسوؤں کی لڑی۔

آنسوؤں کے تار باندھنا (۱) محاورہ) برابر آنسو بہانے جانا۔

آنسوؤں کے دریا میں نہانا (۱) محاورہ) بہت زیادہ رونا۔ اتنا رونا گرا آنسوؤں سے منہ بھیگ جائے۔

آنسو (آ۔ ن۔ سہ) [ع۔ ص] مجت کرنے والی گزاری لڑکی۔ مس آنک (س۔ ۱۔ مٹ) (۱) نشان (۲) حرف (۳) بات (۴) حصہ۔ (۵)

چھلڑے یا بیل گاڑی کی بلیوں کے نیچے دیا ہوا لکڑی کا مضبوط ڈھانچہ جس میں پیچے کی دھری ڈالی جاتی ہے (۱) عدد۔ بندسہ۔ رقم۔ نمبر (۱۱)

سکہ۔ حروف سک۔ ضرب سک (۱) جانچ۔ اندازہ۔ مشکل۔

آنکڑا (آنک۔ ۱) [ع۔ ۱۰۔ مذ] (۱) عدد۔ کتنی کا نشان (۲) بیج (۳) پوشیدہ کی ایک بیماری (۴) کاٹا۔ کب۔ لوہے کا کاٹا۔ آڑی لکڑی۔

آنکس (آن۔ تمس) [ع۔ ۱۰۔ مذ] بانک۔ آنکھ۔ بائیں کو بانکنے کا آکر۔

آنکنا (آنک۔ نا) [ع۔ ۱۱] انسان کرنا۔ جھینڈ کرنا (۲) جھاڑنا۔ دم کرنا۔

منتر بڑھ کر پھونکنا۔ عمل یا منتر سے ذہریلے جانور کے کاٹے کا اثر

آنکھ (آن۔ کو) [ع۔ ۵] صف) آنکھنے والا۔ اندازہ لگانے والا۔

آنکھ (۵۔ ۱۔ مٹ) (۱) بین۔ دیدہ۔ سہتم۔ نظر۔ نگاہ۔ بینائی۔ بصارت۔

(۳) اشارہ۔ ایما۔ عنوشہ۔ غمزہ (۴) توجہ۔ نظر اتقانت (۵) اینٹا زینت

پہچان (۶) حمارت۔ واقفیت (۷) اولاد۔ بیٹا بیٹی (۸) انسانہ۔ تخمینہ

(۹) امید۔ توقع۔ آسرا (۱۰) پاس۔ مرورت (۱۱) چشم حقیقت۔ باغ نظری۔

(۱۲) گنے اور بانس کی گانڈھ میں جو کوئیں یا شاخ پھوٹی ہے (۱۳) کھٹنے

کی جینی پاپی کے پاس گڑھے (۱۴) آسیب۔ سایا۔ صورت۔ دہمی۔

آنکھ آشنا ہونا (۱) محاورہ) واقف ہونا۔ روشناس ہونا۔

آنکھ آنا (۱) محاورہ) آشوب چشم ہونا۔ آنکھ میں حرکت کرنا۔

آنکھ ابل آنا (۱) محاورہ) آنکھ کے آشوب کا زور کرنا۔

آنکھ اٹک جانا (۱) محاورہ) آنکھ ٹک جانا۔ محبت ہو جانا۔

آنکھ اٹھا کر دیکھنا (۱) محاورہ) نظر بھر کر دیکھنا (۲) نظر ملا کر دیکھنا۔

(۳) اتقانت کی نظر سے دیکھنا۔ توجہ کرنا۔

آنکھ اٹھا کر نہ دیکھنا (۱) محاورہ) متفرق کر نہ دیکھنا (۲) نہایت بے پردگی

کرنا۔ خاطر میں نہ لانا۔ کھینڈ ہونا (۳) نام ہونا۔ شرمنا۔

آنکھ اٹھانا (۱) محاورہ) نظر اونچی کرنا۔ آنکھ سامنے کرنا (۲) باز رہنا۔ درگزر

کرنا۔ دست بردار ہونا۔

آنکھ اٹھ جانا (۱) محاورہ) نگاہ اونچی ہو جانا۔ دیکھ لینا۔

آنکھ اٹھ نہ سکتا (۱) محاورہ) شرم کے مارے آنکھ اونچی نہ ہونا۔ نہایت

شرمندہ ہونا۔

آنکھ اچھٹ جانا (۱) محاورہ) جاگ پڑنا۔ نیند میں آنکھ کھل جانا۔

آنکھ اچھٹا (۱) محاورہ) آنکھ کھلنا۔ محبت ہونا۔

آنکھ او کھل پھاڑ او کھل، آنکھ اوٹ پھاڑ اوٹ (۱) مثل) جو چیز آنکھ

سے پرستیدہ ہو کر پھاڑا کی اوٹ میں ہے۔ جو چیز آنکھ کے سامنے

نہیں وہ اگر قریب بھی ہو پھر بھی دور ہے۔

آنکھ اونچی نہ ہونا (۱) محاورہ) شرم سے آنکھ نہ اٹھنا۔

آنکھ ایک نہیں کھلوتیاں تو تو (۱) مثل) آنکھ ایک نہیں۔ سرمرہ دانیان

تو تو موجود ہیں۔ بد صورتی میں سادٹ سجاوٹ کا شوق ہونا۔

آنکھ بجا جانا (۱) محاورہ) کتر جانا۔ اغماض کرنا۔ آنکھ چرا لینا۔

آنکھ بچا کر کچھ کرنا (۱) محاورہ) نظر بجا کر کوئی کام کرنا۔ چھپا کر کوئی کام کرنا۔

آنکھ بچا کے آنا (۱) محاورہ) چھپ کر آنا۔ چوری چھپے آنا۔

آنکھ بچانا (۱) محاورہ) کسی کی نظر سے اپنے کو چھپانا (۲) کترانا۔ نہ دکھانی دینے

کا بہانہ کرنا۔ آنکھ بچرانا۔

آنکھ بچنا (۱) نگاہ بچو کرنا (۲) نہال ہٹنا۔ دھیان ہٹنا۔

آنکھ بچی مال دوستوں کا (۱) مثل) ذرا سی نظر چوکی اور چیز غائب ہوتی۔

آنکھ بچنے کا چاشا۔ لڑکوں میں ایک قسم کی منتر بڑی جاتی ہے کہ جو بے دماغ

بے خبر دیکھے اسی کے چاشا بڑھے

آنکھ بدل جانا (۱) محاورہ) پہلی سی نظر نہ رہنا۔ اگلی سی بات نہ رہنا (۲)

سے مروتی اور بے رخی کرنا۔ بے وفائی کرنا۔
 آنکھ بھرا کرنا (۱) محاورہ آنکھ ملانا۔ آنکھ سامنے کرنا۔ آنکھ رو برو کرنا۔
 آنکھ برابر نہ کر سکتا (۱) محاورہ آنکھ نہ ملا سکتا۔ شرمندہ ہونا۔ مجل ہونا (۲)
 جھانکنا۔ شرم کرنا۔ لاج کرنا۔
 آنکھ بگڑنا (۱) محاورہ آنکھ میں پانی اترنا۔ جلا پڑ جانا۔ بینائی میں فرق آنا۔
 آنکھ بند کر کے پھر دے دینا (۱) محاورہ بے دیکھے بھالے دے دینا (۲)
 پوشیدہ سلوک کرنا (۳) محاورہ آنکھ کے پھر دے دینا۔
 آنکھ بند کر کے پھر کرنا (۱) محاورہ آنکھ میخ کے کوئی کام کرنا (۲) بے پردائی
 سے پھر کام کرنا بے سوچے سمجھے کام کرنا۔
 آنکھ بند کر لینا (۱) محاورہ (۱) آنکھ موند لینا۔ سوچنا (۲) بے خبر ہو
 جانا۔ توجہ اٹھنا لینا (۳) مر جانا۔ دینا سے گزر جانا (۴) عند پیمان سے پھر
 جانا بے وفا ہونا (کنایتاً) تصور باندھنا۔
 آنکھ بند کیے چلے جاؤ (۱) مثل بے دھڑک چلے جاؤ بے خوف اور بے
 کھٹکے چلے جاؤ (۲) سیدھے چلے جاؤ۔
 آنکھ بند کی سال گزرا (۱) مثل بہت جلد ایک سال گزر گیا۔
 آنکھ بند ہو جانا (۱) ہونا (۱) محاورہ (۱) سوچنا (۲) مر جانا (۳) خوف چھانا
 آنکھ (۱) آنکھیں (۱) ہونا (۱) محاورہ (۱) آنکھ یا آنکھیں درست کرنا۔ آنکھ کی
 تیلی کو صاف کرنا (۲) شیشے یا پتھر کی آنکھ ہونا۔
 آنکھ بھرا ہونا (۱) محاورہ آنکھوں میں آسن آ جانا۔
 آنکھ بھر کر (کے) دیکھنا (۱) محاورہ پوری طرح دیکھنا۔ گہری نگاہ سے دیکھنا۔
 آنکھ بھر لانا (۱) محاورہ آب دیدہ ہونا۔
 آنکھ بھوس ٹیڑھی کرنا (۱) تیوری پر بل ڈال کر تھر کی نظر سے دیکھنا (۲)
 غصہ ہونا۔ خفا ہونا (۳) ناچیز سمجھنا جیتر جانا۔
 آنکھ بھوس پڑھنا (۱) محاورہ (۱) ترش رو ہونا۔ تیوری پڑھنا۔ خفا ہونا۔
 (۲) جھگانا۔ نفرت کرنا۔
 آنکھ بھڑھنا (۱) محاورہ آنکھ پھوٹ جانا۔ اندھا ہونا۔
 آنکھ بھر پڑھنا (۱) محاورہ (۱) غافل ہونا۔ دھوکا کھانا۔ فریب میں جانا۔
 آنکھ بھڑھنا (۱) محاورہ (۱) گرفت کرنا۔ قابل اختیار نص لفظ کو فوراً دیکھ لینا
 (۲) بھڑھنا (۳) شوقیہ نگاہ بھڑھنا (۴) قطع اور رعیت کی نگاہ بھڑھنا۔ لاج
 سے دیکھنا (۵) حسد کی نگاہ بھڑھنا۔ رشک سے دیکھنا (۶) توجہ کی نظر بھڑھنا
 بھل ہونا (۷) اتفاقیہ نظر بھڑھنا (۸) ذلت اور حقارت کی نگاہ بھڑھنا [۵]
 شوقی ہونا۔
 آنکھ بھرا ہونا (۱) محاورہ آنکھیں بھرا ہونا (۲) دور اندیش ہونا۔
 آنکھ بھینچنا (۱) محاورہ (۱) آنکھ نم ہونا۔ آسن آنا (۲) شرمانا۔ بھگانا
 آنکھ بھینٹنا (۱) محاورہ نظر بھیننا۔ نگاہ بدلنا۔
 آنکھ (۱) آنکھیں (۱) بھانڈ پھانڈ کے دیکھنا (۱) محاورہ (۱) بڑے غور سے دیکھنا
 (۲) حیرت کی نگاہ سے دیکھنا (۳) محبت اور پیار کی نگاہ سے دیکھنا۔
 آنکھ بے بی بی باندھنا (۱) محاورہ آنکھ بند کر لینا۔ نہ دیکھنا۔
 آنکھ (بھر جانا) پھیرنا (۱) محاورہ (۱) نگاہ پھیرنا۔ رخ پھیرنا (۲) دشمن ہونا۔
 بیزار ہو جانا۔ خفا و ناراض ہونا۔

آنکھ پھرنے کا۔ خود بخود پلک یا پوٹے میں حرکت ہونا۔ پوٹوں کا جنبش
 کرنا۔ شگون لینا۔
 آنکھ پھڑکے بائیں پیر ملے یا سائیں (۱) مثل عورت کی بائیں آنکھ
 آنکھ پھڑکے دہنی ماں ملے یا بہنی (۱) پھڑکے نوکتے میں کہ بھائی یا
 خاندن سے ملاقات ہوگی۔ مرد کی دائیں آنکھ پھڑکے نوکتے میں کہ ماں یا
 بہن سے ملاقات ہوگی۔
 آنکھ (۱) آنکھیں (۱) پھوٹ جانا (۱) محاورہ آنکھ کا کسی ضرب یا حد مر سے جانا
 رہنا۔ اندھا ہو جانا۔
 آنکھ پھوٹی پھوٹی (۱) مثل ابلا سے ایک دفعہ نقصان ہوا تو ہوا مگر
 آسن دن کا جھکنا تو مٹ گیا۔
 آنکھ پھوٹے کی تو کیا بھوس سے دیکھیں گے (۱) مثل اجوی چیز جس کام کی
 سہ وہ کام اسی سے نکلتا ہے۔
 آنکھ پھوٹا (۱) مذابے مروت۔ احسان فرموش۔ حاسد (۲) ایک
 قسم کا بڑا جوڑناک مار کر آنکھ پھوٹ دیتا ہے۔
 آنکھ (۱) آنکھیں (۱) پھوٹ لینا (۱) محاورہ اپنے آپ کو اندھا کر دینا
 آنکھ (۱) آنکھیں (۱) پھوٹنا (۱) محاورہ (۱) اندھا کرنا۔
 آنکھ (۱) آنکھیں (۱) پھیرنا (۱) پھیر لینا (۱) محاورہ (۱) بے مروت ہو جانا۔
 (۲) مرنا۔ دینا سے زحمت ہونا۔
 آنکھ پھیلانا۔ دیکھنے آنکھ بھرا ہونا۔
 آنکھ سیدھا کرنا (۱) محاورہ دیکھنے یا پرکھنے کی یافت پیدا کرنا۔
 آنکھ تاننا (۱) محاورہ تیور سے عندیہ دریافت کر لینا۔
 آنکھ (۱) آنکھیں (۱) طوطے کی طرح بدل لینا (۱) محاورہ بے مروتی کرتے
 دیر نہ لگنا۔
 آنکھ (۱) آنکھیں (۱) ٹھنڈی کرنا (۱) محاورہ تسلی و تسفی دینا۔ دل خوش کرنا۔
 آنکھ ٹیڑھی کرنا (۱) محاورہ بے وفائی کرنا۔ ترش روی سے پیش آنا۔
 آنکھ ٹیڑھی ہونا (۱) محاورہ برہم ہونا۔ ترش رو ہونا۔
 آنکھ ٹھیندنا (۱) محاورہ شرمانا۔ نظر نیچی ہونا۔
 آنکھ تھرا جانا (۱) محاورہ آنکھ بچا جانا۔ گتہ جانا۔
 آنکھ تھرا کر دیکھنا (۱) محاورہ دوسرے کی نگاہ بچا کر دیکھنا۔ کن آنکھیں
 سے دیکھنا۔
 آنکھ تھرا کر کرنا (۱) محاورہ نظر بچا کر کوئی کام کرنا۔ چوری چھپے کام کرنا۔
 آنکھ تھرا کرنا (۱) محاورہ (۱) غماض کرنا (۲) غرور۔ شرم یا کراہیت کی وجہ
 سے نہ دیکھنا۔
 آنکھ تھکانا (۱) محاورہ آنکھ تھکانا۔ دیدے مشکانا۔
 آنکھ (۱) آنکھیں (۱) جھنڈی ہونا (۱) محاورہ بیماری کے سبب آنکھ پوری نہ
 کھلنا۔ استوہ پختہ ہونا۔
 آنکھ جوگنا (۱) محاورہ نظر بچانا۔ غافل ہونا۔
 آنکھ جھینا لینا (۱) آنکھ جھینا (۱) محاورہ (۱) نہ دیکھنا۔ شرم کرنا (۲) پرانی
 واقفیت کو فراموش کرنا (۳) مغرور ہونا۔
 آنکھ (۱) آنکھیں (۱) جھیر کر دیکھنا (۱) محاورہ (۱) آنکھیں بھاڑ بھاڑ کر دیکھنا۔

آنکھ (آنکھیں) نشیر ہونا (۱۱) محاورہ) آنکھ میں چکا چوند ہوجانا۔
 آنکھ (داب) دبا کر دیکھنا (۱۱) محاورہ) آنکھ سے بچ کر دیکھنا۔
 آنکھ (دیکھنا) دیکھنا (۱۱) محاورہ) آنکھ سے دیکھنا (۱۲) غفلت کی نظر سے
 دیکھنا۔ چشم نمائی کرنا۔ گھر کی دینا (۱۳) اشارہ و کنا یہ کرنا۔ آنکھوں ہی آنکھوں
 میں بائیں کرنا (۱۴) علاج کی غرض سے معالج کو آنکھوں کا معاہدہ کرانا۔
 آنکھ دھونی دھلانی ہے (۱) مثل) آنکھ بائیں صاف ہے (۲) ذرا بھی حیا
 نہیں ہے۔ مروت نہیں ہے۔ ڈھٹائی ہے۔
 آنکھ دیکھنے جانا (۱۱) محاورہ) منشا معلوم کرتے رہنا۔ اندازہ لگاتے جانا۔
 آنکھ دیکھ کے کچھ کرنا (۱۱) محاورہ) منشا سمجھ کر کام کرنا۔
 آنکھ دیکھنا (۱۱) محاورہ) صحبت بڑھانا۔ تعلیم پانا۔ تربیت پانا۔
 آنکھ ڈالنا (۱۱) محاورہ) منظر کرنا۔ سرسری نظر سے دیکھنا (۱۲) راغب ہونا
 آنکھ لگانا۔ توجہ کرنا (۱۳) نیت رکھنا۔
 آنکھ (آنکھیں) ڈبڈبانا (۱۰) محاورہ) آسنو بھڑانا۔ آبدیدہ ہونا۔
 آنکھ ڈھلکا (۱۱) محاورہ) آنکھ ندر کرنا۔ آنکھ موندنا۔
 آنکھ رکھنا (۱۱) محاورہ) پیار کی نظر سے دیکھنا۔ محبت رکھنا (۱۲) اس کرنا۔
 امید رکھنا۔
 آنکھ (آنکھیں) روشن ہونا (۱۱) محاورہ) کسی کو دیکھ کر خوش ہونا۔ دیکھ کر مسرت ہونا۔
 آنکھ سامنے نہ کرنا (۱۱) محاورہ) نظر سامنے نہ کرنا۔ ہٹنا۔
 آنکھ سامنے نہ کرنا (۱۳) شرم کے مارے آنکھ نہ اٹھانا۔
 برداشت نہ کرنا (۱۳) شرم کے مارے آنکھ نہ اٹھانا۔
 آنکھ (آنکھیں) سرخ ہونا (۱۱) محاورہ) غصہ کرنا۔ خفا ہونا۔ لال ہونا۔
 آنکھ سیدھی (رکھنا) ہونا (۱۱) محاورہ) مہربانی کی نظر ہونا۔ اچھا بڑنا۔ ہونا۔
 آنکھ سے آنکھ ملانا (۱۱) محاورہ) آنکھ چار ہونا (۱۲) براہری کرنا (۱۳) محبت کرنا۔
 آنکھ سے آنکھ ملنا (۱۱) محاورہ) چو نظر ا ہوجانا۔ دربرو ہونا۔ محبت ہونا۔
 آنکھ سے اوچھل ہونا (۱۱) محاورہ) آنکھ کے سامنے نہ ہونا۔ نظر سے دور ہونا۔
 آنکھ سے شب آسنو کرنا (۱۱) محاورہ) آنکھ سے متواتر آسنو کرنا۔
 آنکھ سے دیکھنے کے کچھ کرنا (۱۱) محاورہ) سوچ سمجھ کر کوئی کام کرنا۔ دیکھ
 بھال کر کوئی کام کرنا۔
 آنکھ سے دیکھنا (۱۱) محاورہ) اپنی نظروں سے دیکھنا
 آنکھ سے سلام لینا (۱۱) محاورہ) آنکھ کے اشارے سے سلام کا جواب دینا۔
 آنکھ سے کرنا (۱۱) محاورہ) نظر سے کرنا۔ بے قدر ہونا۔ ذلیل و خوار ہونا عزت
 بانی نہ رہنا۔
 آنکھ سے لہو ٹپکنا (۱۱) محاورہ) آنکھ سے خون جاری ہونا۔ رونے میں مبالغہ
 کے لیے بولنے ہیں۔
 آنکھ سے نکل جانا (۱۱) محاورہ) دیکھنے میں آنا۔ نگاہ سے گزر جانا۔
 آنکھ (سینکنا) سینکنا (۱۱) محاورہ) آنکھ گرم کرنا (۱۲) حسینوں کو دیکھنا۔
 نظارہ بازی کرنا۔
 آنکھ سے نہ دیکھنا (۱۱) محاورہ) نظر نہ کرنا۔ خیال میں نہ لانا۔ حقیقہ سمجھنا۔
 آنکھ شرمانا (۱۱) محاورہ) جبا کرنا۔ لاج کرنا۔
 آنکھ کا اندھا کاٹھ کا پورا (۱۱) مثل) ایسے وقت مالدار نادان۔ فضول خرچ

آنکھ کا پانی (ڈھلنا) مرنا (۱۱) محاورہ) ایسے شرم ہونا۔ بے حیا ہونا لاج نہ رہنا۔
 آنکھ کا پردہ (۱۱) محاورہ) آنکھ کی جھلی (۱۲) آنکھ کا لحاظ۔ آنکھ کی لاج
 آنکھ کا تارا (۱۱) محاورہ) آنکھ کا تار۔ آنکھ کی پٹی (۱۲) آنکھ کی روشنی۔ آنکھ
 کی جوت۔ نور۔ اجالا (۱۳) نہایت پیارا۔ نہایت عزیز (۱۴) مجازاً بیٹا۔
 آنکھ کا تارا ہونا (۱۱) محاورہ) بہت عزیز اور پیارا ہونا۔
 آنکھ کا جالا (۱۱) مذ۔ جھلی جو آنکھ کی پٹی پر آجاتی ہے۔
 آنکھ کا حجاب۔ آنکھ کی شرم۔ حیا۔
 آنکھ کا ڈورا (۱۱) مرند۔ جانے یا نسنے کی صورت میں آنکھ کی سفیدی پر ابھر
 آنے والی سرخ رگیں۔
 آنکھ کا ڈھلکا (۱۱) مذ۔ ایک بیماری جس میں آنکھ سے پانی بہتا رہتا ہے۔
 آنکھ کا ڈھیللا (۱۱) مذ۔ آنکھ کے اندر کا گول حصہ جس میں پٹی ہوتی ہے۔
 آنکھ کا خیار (۱۱) مذ۔ آنکھ کا دھندلا پن۔ آنکھ سے صاف نظر نہ آنا۔
 آنکھ کا کامل چرانا (۱۱) محاورہ) چوری کے فن میں یتا ہونا۔ کمال عیار ہونا۔
 آنکھ کا لہو کی پٹی ہوجانا (۱۱) محاورہ) آنکھ کا سرخ ہوجانا۔
 آنکھ کا ن سے درست ہے (۱۱) مثل) بالکل درست ہونا۔ جس جانور
 میں کوئی عیب نہ ہو اس کی نسبت بولا جاتا ہے۔
 آنکھ (کھل جانا) کھلنا (۱۱) محاورہ) جاگ اٹھنا۔ نیند سے بیدار ہونا (۱۲)
 عورت حاصل کرنا (۱۳) حقیقت حال معلوم ہونا۔
 آنکھ کھولنا (۱۱) محاورہ) (۱) جاننا۔ بیدار ہونا (۲) ہوش سنبھالنا (۳) بید ہونا۔
 آنکھ کی بدی (برائی) بھروسے کے آگے (۱) مثل) کسی شخص کا عیب یا
 قصور اس کے عزیز یا دوست کے آگے بیان کرنا۔
 آنکھ کی پٹی (۱۱) مٹا۔ مردک چشم (۲) لاڈلا۔ نہایت پیار۔
 آنکھ کی پٹی (پھر جانا) پھرنا (۱۱) محاورہ) علامت مرگ کا ظاہر ہونا۔
 آنکھ (آنکھوں) کی کھڈک (۱) مٹا۔ وہ عزیز دوست یا پیارے دیکھ
 کر نہ بھییں ٹھنڈی ہوں۔
 آنکھ کی حسا (۱۱) مٹا) آنکھ کا لحاظ
 آنکھ کی سیل (۱۱) مٹا) آنکھ سے بننے والا پانی۔
 آنکھ کی سیر (۱۱) مٹا) وہ گفت جو آنکھ کے کونوں میں جمع ہوجاتی ہے۔
 بیجا بیگنہ۔
 آنکھ کی مروت (۱۱) مٹا) شرم جیا۔ عورت کا فطری حجاب۔
 آنکھ کے آگے آنکھ کے سامنے (۱۱) آنکھ کے دربرو (۱۲) موجودگی ہیں۔
 آنکھ کے بل جلنا (۱۱) محاورہ) اتھنا سے مشوق کا اظہار کرنا
 آنکھ (کاٹنا) کٹونا (۱۱) محاورہ) گہری نگاہ سے دیکھنا۔ نظر جا کر دیکھنا۔
 آنکھ گرم کرنا (۱۱) محاورہ) نظارہ بازی کرنا
 آنکھ کڑنا (۱۱) محاورہ) نظر جتا۔
 آنکھ لال کرنا (۱۱) محاورہ) آنکھ سرخ کرنا۔ غضب ہونا۔ خفا ہونا۔ خشمگین
 ہونا۔ خفہ ہونا۔
 آنکھ لمانا (۱۱) محاورہ) شرم دجیا سے آنکھ بچی کرنا۔ لحاظ کرنا۔ مروت کرنا۔
 آنکھ لانی دھی ہونی پڑی (۱۱) مثل) بڑی کے عزیز و اقارب پیغام پہنچنے
 پر بڑے کے عزیزوں سے آنکھیں بچی کر لیتے ہیں تو اس سے معلوم ہو

جانا ہے کہ انہیں ناتا منظور ہے۔

آنکھ (آنکھیں) لڑانا (۱- محاورہ) (۱۱) آنکھ ملانا (۲) گھورتا - تاکنا - نگاہ سے دیکھنا (۳) عاشق ہونا (۴) مقابلہ کرنا۔

آنکھ لڑ جانا (لڑنا) (۱- محاورہ) شدیدتہ ہونا۔ فریضتہ ہونا۔ عاشق ہو جانا۔
آنکھ لگانا (۱- محاورہ) (۱) محبت کرنا۔ آشنائی کرنا (۲) سونا (۳) ناک میں
آنکھ لگ جانا (لگنا) (۱- محاورہ) (۱) نیند آنا (۲) عاشق ہو جانا۔ محبت ہو جانا۔

آنکھ لگی (۱- معنی) آشناعورت۔ ناجائز تعلق رکھنے والی عورت۔
آنکھ لگی جانا (۱- محاورہ) جی لپکانا۔ خواہش مند ہونا۔

آنکھ لگی جانی ہوئی لڑنا (۱) نہایت محبت سے دیکھنا۔ پیار اور بے تابی سے دیکھنا
(۲) شخص یا لڑائی کی نظر سے دیکھنا۔

آنکھ مارنا (۱- محاورہ) (۱) آنکھ سے اشارہ کرنا۔ پلک مارنا۔ چشمک زنی کرنا۔
(۲) کسی کام کے کرنے کو آنکھ سے منع کرنا (۳) غمزہ کرنا۔

آنکھ نہ جانا (۱- محاورہ) (۱) آنکھ بند ہو جانا (۲) مرجانا۔ جہان سے کوچ کرنا۔
آنکھ نہ جانا (۱- محاورہ) بار بار آنکھ کو کھولنا اور بند کرنا۔ آنکھ مٹکانا۔ پلکیں پانا
آنکھ نہ جولی (۱- مذ) بچوں کا ایک کھیل جس میں ایک لڑکے کی آنکھیں بند

کر کے باقی لڑکے چھپ جاتے ہیں۔ پھر وہ آنکھیں کھول کر ڈھونڈنا پھرتا
ہے اور جسے پا کر چھپ لیتا ہے اسے آنکھ بند کر کے بیٹھتا رہتا ہے۔
آنکھ ملانا (۱- محاورہ) (۱) منسوب ہونا۔ آنکھ لڑانا۔ ٹھنکی باندھ کر دیکھنا
(۲) سامنے ہونا۔ ملاقات کرنا۔

آنکھ ملنا (۱- محاورہ) (۱) مقابل ہونا (۲) نگاہ لڑنا۔ محبت ہو جانا۔
آنکھ منڈنا (۱- محاورہ) آنکھ بند ہونا (۲) سونا۔ آنکھ لگنا۔ نیند آ جانا۔ (۳)
مر جانا (۴) بے خبر ہونا۔

آنکھ مندی اندھیرا پاک (۱- مثل) آنکھ بند ہونے کے بعد اندھیرا ہی
اندھرا ہے۔

آنکھ موچی دھب بچوں کا ایک کھیل۔ ایک بچہ کی آنکھیں بند کر کے اس
کے سر پر دھب لگاتے ہیں اور پھر پوچھتے ہیں کہ کس نے مارا۔ اگر وہ
بھٹک بتا دے تو لو لگانے والا چور بن جاتا ہے اور سب اس کے دھب
لگاتے ہیں۔ اسے دھول دھبا بھی کہتے ہیں۔

آنکھ موڑنے کے کام کرنا (۱- محاورہ) بے دیکھے جملے کوئی کام اختیار کرنا۔
بے سمجھے بوجھے کسی کام کو کر بیٹھنا۔

آنکھ موڑنا (بیچنا) (۱) آنکھ بند کرنا۔ آنکھ میچنا (۲) سونا۔ آرام کرنا (۳)
بے خبر ہونا (۴) مرجانا۔

آنکھ میلی کرنا (۱- محاورہ) (۱) بے مروت ہو جانا (۲) تیوری پر بل لانا۔
آنکھ میلی نہ کرنا۔ رنج نہ کرنا۔ کسی حد سے متاثر نہ ہونا۔

آنکھ میں آنکھ (ڈالنا) ڈال کر دیکھنا (۱- محاورہ) دھسانی سے دیکھنا گھڑ
کر دیکھنا۔ بے جاتی دے باکی سے دیکھنا۔

آنکھ میں بسنا (۱- محاورہ) نظر میں سمانا۔ بسنا آنا۔
آنکھ میں یعنی شرم دل کی کھلی شرم (۱- مثل) عورتیں ایسی حکم بولتی ہیں
جہاں کوئی عورت مروت سے نہ ماننے والی کوئی بات بھی مان لے۔

آنکھ (آنکھیں) میں چھینا (۱- محاورہ) آنکھوں میں سمانا آنکھوں میں بسنا۔
آنکھ میں خار ہونا (۱- محاورہ) ناگوار ہونا۔ آنکھوں کو برلا لگنا۔
آنکھ میں ذرا (آنسو) میل نہیں (۱- مثل) ذرا مروت اور رحم نہیں ہے جی
اور بے شرم ہے۔

آنکھ میں خاک (دھول) جھونکنا (۱- محاورہ) دھوکا دینا۔ قریب دینا۔
آنکھ میں ذرا باقی نہیں۔ دل میں بالکل رحم نہیں۔ بالکل شرم نہیں۔
آنکھ میں سنے کی خڑبڑ چھیننا (۱- محاورہ) آنکھوں میں ہلکا سا سر مرگانا۔
آنکھ میں سمانا (۱- محاورہ) آنکھ میں جھٹا۔ آنکھ میں بسنا۔

آنکھ میں شرم ہو تو جہاز سے بھاری ہے (۱- مثل) شرم وحیا بہت
قابل عزت چیز ہے۔

آنکھ میں (کھٹ جانا) کھینا (۱- محاورہ) نظر پہ چڑھنا۔ پسند آ جانا۔
آنکھ میں کھٹنا (۱- محاورہ) آنکھ میں چھیننا۔ ناگوار ہونا۔
آنکھ میں مروت نہ ہونا (۱- محاورہ) بے مروت ہونا۔ طوطا چشم ہونا۔
آنکھ آنکھوں میں مٹی کوٹ کوٹ کر بھرے ہونا (۱- محاورہ) آنکھوں

کا بہت خوبصورت ہونا۔
آنکھ میں میل ہے اور اس میں میل نہیں (۱- مثل) کسی چیز کی صفائی
اور ستر ہے بن کے متعلق مبالغہ کے طور پر کہتے ہیں۔

آنکھ میں نیل کی سلانی پھیرنا (۱- محاورہ) اندھا کرنا (نیل کی سلانی پھیر
سے آنکھیں اندھی ہو جاتی ہے۔
آنکھ ناک سے درست ہونا (۱- محاورہ) بے عیب ہونا۔ تندرست ہونا
شکل و صورت میں کوئی خرابی نہ ہونا۔

آنکھ ناک سے ڈرنا (۱- محاورہ) کسی کے جھوٹ بولنے پر عورتیں کنتی ہیں
کہ خدا سے ڈر۔ ایسا نہ ہو کہ اس کی سزایں خدا تعالیٰ اندھا یا ذلیل کرنے
کی آنکھ نم کرنا (معنی) سرب اودنا۔ آبدیدہ ہونا۔
آنکھ نہ پڑنا (۱- محاورہ) نظر نہ پڑنا۔ توجہ نہ کرنا۔ خیال نہ کرنا۔ نظر نہ ٹھہرنا
آنکھ نہ بیچنا (۱- محاورہ) آنسو نہ لگنا (۲) رحم نہ کرنا۔
آنکھ نہ پھرننا (۱- محاورہ) بے مروت نہ ہونا۔ بے ناز نہ ہونا۔ تیوری پر بل
نہ ڈالنا۔

آنکھ نہ کھٹنا (۱- محاورہ) نظر نہ جتنا۔ تاب نہ لانا۔ چکا چندی لگنا۔
آنکھ نہ جھٹنا (۱- محاورہ) نظر قائم نہ رہ سکا۔ روشنی یا چمک کی تاب نہ لانا۔
آنکھ نہ بھینکنا (۱- محاورہ) (۱) پلک سے پلک نہ لگنا۔ نیند نہ آنا (۲) شرمندہ
نہ ہونا۔ احسان نہ اٹھانا (۳) بے باک ہونا۔ دلیرانہ مقابلہ کرنا۔
آنکھ نہ دیدہ کاڑھے کشیدہ (۱- مثل) لیاقت کچھ نہیں دعوے بڑے بڑے
آنکھ نہ ڈالنا (۱- محاورہ) توجہ نہ کرنا۔ پروا نہ کرنا۔

آنکھ نہ ناک ہو جانا (۱- مثل) بد صورت کی حالت میں سنگار کرنے
کی دھن۔ آنکھ ناک نہ ہوتے ہوتے سنگار کے ذریعہ خوبصورت بننے
کی کوشش۔

آنکھ سچی (کرنا) ہونا (۱- محاورہ) (۱) آنکھ سامنے نہ کرنا (۲) الجانا۔ شرمندہ
آنکھ والا (۱- مذ) آنکھ رکھنے والا (۲) پھلنے رکھنے والا جو ہر شمس۔
(۳) صاحب بصیرت۔

آنکھوں سے پھوٹی تو بھوڑوں سے کیا کام ۱۱۔ مثل جب اصل تعلق ہی نہیں رہا تو پھر آنا جانا کیسا۔
 آنکھ سے منظر سے نیت سے ارادہ ہے۔ خواہش ہے۔ پسند ہے۔
 آنکھوں سے آنکھوں میں ۱۱۔ تابع فعل آنکھوں نظروں میں اشاروں ہی اشاروں میں۔
 آنکھوں سے آنکھوں میں پھر لینا ۱۱۔ محاورہ چپکے سے اُٹالینا کسی چیز کو اس طرح جانا کہ پتہ نہ چل سکے۔
 آنکھوں سے آنکھوں میں سحر ہو جانا ۱۱۔ محاورہ ساری رات جاگتے کٹتے۔
 آنکھوں پر (آؤ) آئیے { تشریف لایے۔
 آنکھوں پر (بٹیکھو) بیٹھیے { جم جم آئے۔
 آنکھوں پر بیٹھانا ۱۱۔ محاورہ نہایت عزت اور احترام کرنا۔ بے حد مدارت کرنا۔
 آنکھوں پر بیٹی باندھنا ۱۱۔ محاورہ احسان فرموش ہونا۔ جان بوجھ کر لیے خیر ہونا، اندھا بینا۔ غافل اور بے خبر ہونا (۳) بے درد اور بے مروت ہونا۔
 آنکھوں پر پردے (پرودہ) پڑنا ۱۱۔ محاورہ (۱) غفلت کرنا۔ خیال نہ رہنا (۲) بے وقوف بن جانا۔ دھوکا کھا جانا (۳) کچھ نہ سمجھنا۔
 آنکھوں پر پلکوں کا بوجھ نہیں ہوتا ۱۱۔ مثل (۱) اپنا پیارا کبھی ناگوار نہیں کرتا۔
 آنکھوں پر چٹکری (رکھ لینا) رکھنا ۱۱۔ محاورہ (۱) بے مروتی کرنا۔ دہانت و غماض (۲) بے حیانتا۔
 آنکھوں پر جگر دینا ۱۱۔ محاورہ کمال محبت اور حسن عقیدت سے بیٹھانا۔
 نہایت اعزاز و اکرام کرنا۔
 آنکھوں پر چینی چھسا جانا ۱۱۔ محاورہ اندھا ہو جانا۔ بے مروتی کرنا۔ خیر ہو جانا۔ مغرور ہو جانا۔
 آنکھوں پر دیوار اٹھانا ۱۱۔ محاورہ مگر جانا۔ جان بوجھ کر آکار کرنا۔
 آنکھوں پر رکھنا ۱۱۔ محاورہ محبت کرنا۔ پیار کرنا۔
 آنکھوں پر قدم رکھیں ۱۱۔ محاورہ شوق سے آئیں۔ آپ کے قدم سر آنکھوں پر۔
 آنکھوں پر قدم لینا ۱۱۔ محاورہ نہایت عزت سے استقبال کرنا۔ خاطر کے مارے کچھے جانا۔
 آنکھوں پر ہاتھ رکھ لینا ۱۱۔ محاورہ چھینپ جانا۔ شرمندہ ہو جانا۔
 آنکھوں تلے بھرتا ۱۱۔ محاورہ آنکھوں میں بسنا۔ خیال میں پھرتا۔
 آنکھوں تلے آنا ۱۱۔ محاورہ غصے کے مارے آنکھوں کا شمرخ ہو جانا۔ غیظ و غضب میں بھر جانا۔
 آنکھوں (دھنسا) دھکی۔ چشم دید۔ دیکھا ہوا۔
 آنکھوں دیکھتے (۱) جان بوجھ کر (۲) دیکھتے دیکھتے (۳) اپنے منہ میں آنکھوں دیکھتے مکی نہیں نکلی جاتی ۱۱۔ مثل اجانتے بوجھے کوئی مشکل میں نہیں پڑتا۔
 آنکھوں دیکھیں گے ۱۱۔ مثل کوئی خوشی دیکھنے کی امید یا خواہش۔

آنکھوں سے کلجے ٹھنڈک ۱۱۔ مثل ہر طرح عیش و آرام ہر پارا راحت و موجب آرام۔
 آنکھوں سے (۱) محاورہ نہایت خوشی سے۔ کمال رضا و رغبت سے۔ دل و جان سے۔
 آنکھوں سے آنکھیں ملانا ۱۱۔ محاورہ منظر رو برو کرنا۔ چار آنکھیں کرنا۔
 آنکھوں سے اُترنا ۱۱۔ محاورہ دل سے اُترنا۔ حقیق و ذلیل ہونا۔
 آنکھوں سے اُٹھانا ۱۱۔ محاورہ کمال اعزاز و اکرام سے کسی چیز کو اُٹھانا۔ نہایت شرف سے اُٹھانا۔
 آنکھوں سے اوجھل ہونا ۱۱۔ محاورہ منظر سے چھپ جانا۔ سامنے سے کیسے چلے جانا۔
 آنکھوں سے بجا لانا ۱۱۔ محاورہ کسی حکم کی تعمیل خوشی سے کرنا۔
 آنکھوں سے بلانا ۱۱۔ محاورہ اشاروں سے بلانا۔
 آنکھوں سے باؤں لگانا ۱۱۔ محاورہ احسن عقیدت اور فطری محبت سے کسی کے باؤں کو اپنی آنکھوں سے رکھنا۔
 آنکھوں سے پردہ اٹھ جانا ۱۱۔ محاورہ غفلت دور ہو جانا (۲) لاعلمی دور ہو جانا۔
 آنکھوں سے تلوے سلانا ۱۱۔ محاورہ تمہوں سے آنکھیں ملنا۔ انتہائی محبت کا اظہار کرنا۔
 آنکھوں سے جان (دم) نکلنا ۱۱۔ محاورہ (۱) آنکھوں کے رستے سے دم نکلنا (۲) راہ تلے تلے چھٹنا۔
 آنکھوں سے چگاریاں اُڑنا ۱۱۔ محاورہ بہت جی جلنا۔ بہت دکھ ہونا۔
 آنکھوں سے خون برسا ۱۱۔ محاورہ بہت غصے میں ہونا۔ خون کے آنسو پڑنا۔
 آنکھوں سے دریا بہنا ۱۱۔ محاورہ بہت زیادہ رونا۔
 آنکھوں سے دیکھنا کبھی کانوں سے ۱۱۔ مثل عجیب و غریب یا خلاف رقیاس واقعہ کا ظہور پذیر ہونا۔
 آنکھوں سے شعلے ٹپکنا ۱۱۔ محاورہ بہت زیادہ غصا آنا۔ آنکھوں میں جلن ہونا۔
 آنکھوں سے صورت نہ جانا ۱۱۔ محاورہ ہر وقت تصور میں نقشہ قائم رہنا۔ خیال میں صورت سامنے پھرتی رہنا۔
 آنکھوں سے کام (کرنا) بجا لانا۔ عین اطاعت سے کوئی خدمت ادا کرنا۔
 آنکھوں سے گرانا ۱۱۔ محاورہ ذلیل و خقیق سمجھنا۔
 آنکھوں سے (گر جانا) کرنا ۱۱۔ محاورہ نظروں سے اُترنا۔ بے قدر ہونا۔
 آنکھوں سے (لگا رکھنا) لگا کر رکھنا ۱۱۔ محاورہ بہت عزیز رکھنا۔
 سینت کر رکھنا۔ حفاظت سے رکھنا۔
 آنکھوں سے لگانا ۱۱۔ محاورہ بہت قدر کرنا۔ آنکھوں پر رکھنا۔ تعظیم اور ادب سے لینا۔
 آنکھوں سے نور جاتا رہنا ۱۱۔ محاورہ آنکھوں کی روشنی کا جاتا رہنا۔ اندھا ہو جانا۔
 آنکھوں سے نیل ڈھلنا ۱۱۔ محاورہ مرنے لگنا۔ مرنے کی علامت کا ظاہر ہونا۔

آنکھوں سے نیند اُڑنا (۱) محاورہ (نیند اُچٹ جانا۔ بے قراری سے نیند نہ آنا۔)

آنکھوں کا برستا (۱) محاورہ (زار زار رونا۔)

آنکھوں کا پانی ڈھلنا (۱) محاورہ (بے جیا ہونا بے شرم دے لحاظ ہونا۔)

آنکھوں کا تارا (۱) محاورہ (۱) آنکھ کا تیل (۲) نہایت پیارا۔ نہایت عزیز آنکھوں کا تیل نکالنا (۱) محاورہ (دیدہ ریزی کرنا۔ باریک کام کرنا۔)

نگاہ پر زور ڈالنا۔

آنکھوں کو بدل کر دیکھنا (۱) محاورہ (تور بدل کر دیکھنا۔ تاک بھوں چڑھا کر دیکھنا۔)

آنکھوں کو تنوں سے ملنا (۱) محاورہ (کسی دشمن کی آنکھوں کو اپنے پیروں سے ملنا۔ دشمنی کی حسرت نکالنا (۲) بیدخوشا کرنا۔)

آنکھوں کو کھو (رو) بیٹھنا (۱) محاورہ (اندھا ہو جانا۔ آنکھوں کی روشنی کھو دینا۔)

آنکھوں کی پٹی (۱) مٹ (آنکھ کا تارا (۲) بہت پیارا۔)

آنکھوں کی پتلیاں پھر جانا (۱) محاورہ (مرنے کے وقت پتلیاں آنکھوں کے گوشوں میں بھجپ جانا۔)

آنکھوں کی سوٹیاں رہ گئی ہیں۔ آنکھوں کی سوٹیاں نکالنی رہ گئی ہیں (۱) مثل (غور ڈی تکلیف دور ہونی باقی رہ گئی ہے۔)

آنکھوں کی سیاہی سفید ہونا (۱) محاورہ (موت کی علامتیں ظاہر ہونا۔ بے دلف ہو جانا۔)

آنکھوں کی ضفائی (۱) محاورہ (چالاک۔ ڈھٹائی۔ بے مردتی۔)

آنکھوں کی فصیر کھلواؤ (۱) محاورہ (دیکھنے کی لیاقت پیدا کرو۔)

آنکھوں کی قسم۔ کوڑتیں ان الفاظ سے قسم کھاتی ہیں۔

آنکھوں کے آگے (تابع فعل) رو برو۔ منظر کے سامنے۔

آنکھوں کے آگے ابد دعا تیری یا اپنے پیاروں کی بری حالت آنکھوں کے سامنے آئے۔

آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانا (۱) محاورہ (۱) آنکھوں میں تاریکی بھانا۔ ضعف یا غم کے باعث کچھ نہ سمجھائی دینا۔)

آنکھوں کے آگے پلکوں کی برائی کرنا (۱) محاورہ (عزیز یا دوست کی برائی دوست یا عزیز کے رو برو کرنا۔)

آنکھوں کے آگے پھر جانا۔ آنکھوں کے تلے پھر جانا (۱) محاورہ (آنکھوں کے پیچھے پھر جانا۔ آنکھوں کے پیچھے پھرنا یا نصور میں کسی بات کا ہو جو سامنے آجانا۔)

آنکھوں کے آگے تارے (چٹکنا) چھوٹنا (۱) محاورہ (صد سے یضعف سے چکر آ جانا۔ تر مرے نظر آنا۔)

آنکھوں کے آگے (جہان) عالم تاریک ہونا (۱) محاورہ (غم کے مارے کچھ نہ دکھائی دینا۔)

آنکھوں کے آگے چاندنا ہونا (۱) محاورہ (تورا جانا تارے نظر آ جانا شدت ضعف کے باعث آنکھوں کے سامنے جھکتے ذرے نظر آنا۔)

آنکھوں کے آگے سامنے رکھنا (۱) محاورہ (نظروں سے دور نہ

ہونے دینا۔ نظروں میں رکھنا۔ نگاہوں میں رکھنا۔)

آنکھوں کے آگے سے سر گنا (۱) محاورہ (نظر سے غائب ہونا۔ پاس سے ہٹنا۔)

آنکھوں کے آگے ناک۔ سو جھکے گی ناک (۱) محاورہ (چیز سامنے ہوتے ہوئے نظر نہ آنا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا عیب دکھائی نہ دینا۔ بیوقوفی کے اظہار کے لئے غلط ٹکایا جاتا ہے۔)

آنکھوں کے اشارے۔ گر ٹپے۔ غصے۔ غم۔

آنکھوں کے اندھے نام (سرخ روشن) نہیں سکھ (۱) مثل (غلط نام یا غلط تعریف۔ برعکس ہند نام زنجی کا فو۔ اس نادان کی نسبت کہتے ہیں جو دانہ بنتے۔)

آنکھوں کے بل چلنا (۱) محاورہ (نہایت تعظیم اور ادب سے جانا۔)

آنکھوں کے تارے چھٹنا (۱) محاورہ (منظر یا دماغ کی کمزوری کے باعث تر مرے نظر آنا۔)

آنکھوں کے تر مرے۔ وہ تارے جو چکر، ضعف یا صدے کے باعث آنکھوں کے آگے نظر آتے ہیں۔

آنکھوں کے آگے اندھیرا (۱) محاورہ (کچھ نہ سو جھنا۔ چکر آنا۔)

آنکھوں کے تلے لہو اترنا (۱) محاورہ (پھسے کے مارے آنکھوں کا مخرج سے لہو جانا۔)

آنکھوں کے حلقے (۱) بند آنکھوں کے گرد پڑ جانے والے دائرے۔

آنکھوں کے ڈورے۔ آنکھوں کی لال لال رگیں، جو نٹنے یا خمار سے پیدا ہو جاتی ہیں۔

آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانا (۱) محاورہ (ضعف یا کمزوری سے تاریکیوں میں تاریکی بھانا۔)

آنکھوں کے سامنے رہنا (۱) محاورہ (آنکھوں سے دور نہ ہونا ہر وقت رو برو رہنا۔)

آنکھوں کے ناخون (ناخن) لو (۱) مثل (غفلت درد کد کچھ پر کچھ پیدا کر دو۔ آنکھیں بڑاؤ۔)

آنکھوں میں (۱) تابع فعل (نظروں میں نگاہوں میں۔)

آنکھوں میں آنا (۱) محاورہ (نظروں میں سانا۔ نظر پر چھٹنا۔)

آنکھوں میں بائیں کرنا (۱) محاورہ (اشاروں میں بائیں کرنا۔)

آنکھوں میں بچھ ہونا (۱) محاورہ (آنکھوں میں غول و قرار ہونا۔)

آنکھوں میں بٹنا (۱) محاورہ (آنکھ میں سانا۔ بھانا۔ پسینا آنا۔)

آنکھوں میں بہا کرنا۔ آنکھوں میں بہا کرنا۔ آنکھوں میں بہا کرنا۔

آنکھوں میں چٹکنا (۱) محاورہ (آنکھوں میں چٹکنا۔ دل شکفتہ ہونا۔)

آنکھوں میں چٹکنا (۱) محاورہ (آنکھوں میں چٹکنا۔ دل شکفتہ ہونا۔)

آنکھوں میں پھیکا لگنا، (۱- محاورہ) نظروں میں اچھا معلوم نہ ہونا۔
 آنکھوں میں پی جانا (۱- محاورہ) ضبط کرنا۔ خاموش رہنا۔
 آنکھوں میں تلکے چھبونا (۱- محاورہ) آنکھیں پھوڑنا۔ نہایت تکلیف دینا۔ دشمن سے بدلہ لینا۔
 آنکھوں میں ٹٹلنا (۱- محاورہ) نظروں میں چمکنا۔ نہایت ہلکا ہونا۔ اندازہ ہونا۔
 آنکھوں میں نیل لگانا (۱- محاورہ) آنکھ کی خرابی کا بہانہ بنانا (نیل لگانے سے آنکھیں آشوب کی ہوتی معلوم ہوتی ہیں)
 آنکھوں میں ٹھنڈک پڑنا (۱- محاورہ) دل خوش ہونا۔ تسکین ہونا۔ تسلی ہونا۔
 آنکھوں میں کھڑنا۔ نظروں میں چمکنا۔ قدر پانا۔ اچھا معلوم ہونا۔
 آنکھوں کے آگے میں طیسو کھولنا (۱- محاورہ) آنکھوں میں سرسوں بھولنا۔
 ہر چیز زرد ہی زرد نظر آنا۔ آنکھوں میں زردی چھا جانا۔
 آنکھوں میں اچھی آنا (۱- محاورہ) اسارے جسم سے روح کا کچھ نکل کر آنکھوں میں آجانا۔ مرنے کے قریب پہنچنا (۲) آنکھوں کو بھلا معلوم ہونا۔
 آنکھوں میں چمکنا (۱- محاورہ) آنکھوں میں ٹٹلنا۔ نظر پر چڑھنا (۲) بھلا لگانا۔ پسند آنا (۳) سمجھ میں آجانا۔ اچھا لگانا۔
 آنکھوں میں جھپٹنا پڑنا (۱- محاورہ) کچھ کا کچھ دکھائی دینا۔ آنکھوں میں فرق آنا۔
 آنکھوں میں جگہ دینا (۱- محاورہ) آنکھوں پر بٹھانا۔ تعظیم کرنا۔ عزیز سمجھنا۔ قدر کرنا۔
 آنکھوں میں جہان دنیا اندھیر ہونا (۱- محاورہ) غم بارش کے آنکھوں میں جہان ازمانہ عالم سیاہ ہونا (۱) مارے کچھ نہ دکھائی دینا۔ شدت غم کے باعث ہر طرف اندھیرا دکھائی دینا۔
 آنکھوں میں چرانا (۱- محاورہ) سب کے سامنے سے چور لینا۔ چوری میں کمال کرنا۔ چالاکی دکھانا۔
 آنکھوں میں چربی چھانا (۱) آنکھوں پر پردہ پڑنا (۲) مفرد ہونا (۳) اچھے برے میں تفریق نہ کرنا (۴) مستی میں اندھا ہونا۔
 آنکھوں میں چڑھنا (۱) آنکھوں میں چمکنا۔ نظر پر چڑھنا (۲) قدر پانا۔ منظور نظر ہونا۔ بھانا۔ پسند آنا۔ بھلا لگانا۔
 آنکھوں میں چکا چوند ہونا (۱- محاورہ) تیز روشنی میں نظر قائم نہ رہ سکتا۔
 آنکھوں میں چھانا۔ نظروں میں سمانا۔ آنکھوں میں بسنا۔ آنکھوں میں سماں بندھنا۔
 آنکھوں میں غار (گزرنا۔ لگنا) ہونا (۱- محاورہ) ناگوار گزرنا۔ طبیعت پر گراں معلوم ہونا۔ برا لگنا۔ باعث تکلیف ہونا۔
 آنکھوں میں خماک (۱- محاورہ) (۱) چشم بدور۔ خدا نظر بد سے بچائے۔ (۲) کچھ نہیں۔ بالکل نہیں۔
 آنکھوں میں خاک جلی نہ دوں، آنکھوں میں خاک کی چٹکی بھی نہ ڈالوں (۱- مثل) کچھ بھی نہ دوں۔ ذرا کسی چیز بھی نہ دوں۔
 آنکھوں میں خاک ڈالنا (۱) چھوٹنا (۱- محاورہ) (۱) ظاہرات کو چھپانے کی کوشش کرنا (۲) دھوکا دینا۔ فریب دینا (۲) غائب کر دینا۔ چھپانا۔
 آنکھوں میں خون (اترنا) اُترانا (۱- محاورہ) بہت غصہ آنا۔ آنکھیں

سرخ ہوجانا۔
 آنکھوں میں دم اٹکا ہونا۔ آنکھوں میں دم (آنا) ہونا (۱- محاورہ) دم آنکھوں میں باقی رہنا۔ نزع میں ہونا۔ موت کا وقت قریب آجانا۔
 آنکھوں میں دنیا تاریک (سیاہ) ہونا (۱- محاورہ) شدت غم سے کچھ دکھائی نہ دینا۔
 آنکھوں میں رات کا ٹٹنا (۱- محاورہ) ساری رات جاگتے گزارنا۔ نیند بالکل نہ آنا۔
 آنکھوں میں رات کٹنا (۱- محاورہ) ایک سے ایک نہ لگنا۔ بالکل نہ سونا۔ بے قرار رہنا۔ بے کل رہنا۔ رات بھر نہ سونا۔
 آنکھوں میں ریلین ہونا (۱- محاورہ) آنکھوں کا خوبصورت ہونا۔
 آنکھوں میں رکھنا (۱- محاورہ) نظروں میں رکھنا۔ نظر بندی میں رکھنا۔
 آنکھوں سے اوجھل نہ ہونے دینا۔ ناز اور لا ڈھیں پالنا۔
 آنکھوں میں رہنا (۱- محاورہ) سامنے رہنا۔ نگاہوں میں رہنا۔ نہایت عزیز اور پیارا ہونا۔
 آنکھوں میں سبک ہلکا ہونا (۱- محاورہ) نظروں میں حقیر ہونا۔ آنکھوں سے گزرا۔ بے قدر اور بے قدر ہونا۔
 آنکھوں میں سرسوں بھولنا (۱- محاورہ) زرد ہی زرد دکھائی دینا (۲) ہر چیز بھلی معلوم ہونا۔ خوش ہونا۔
 آنکھوں میں سرمہ (دینا) کھلانا (۱- محاورہ) سرمہ لگانا۔
 آنکھوں میں سرمہ کھلنا (۱- محاورہ) آنکھوں میں اچھی طرح سرمہ لگانا۔ آنکھوں میں سرمہ پڑنا۔
 آنکھوں میں سفیدی چھا جانا (۱- محاورہ) (۱) اندھا ہونا (۲) نہایت پتلا آنا۔
 آنکھوں میں سمانا (۱- محاورہ) آنکھوں میں بسنا۔ نظروں میں چڑھنا۔
 آنکھوں میں سوال و جواب ہونا (۱- محاورہ) اشاروں میں بات چیت ہونا۔
 آنکھوں میں شرم نہ ہونا (۱) ٹٹلنا (۱) مثل جن آنکھوں میں حیاء نہ ہوں۔
 آنکھوں کے ڈھیلوں سے مٹی کے ڈھیلے اچھے۔
 آنکھوں میں صورت اچھ جانا، پھرنا (۱- محاورہ) آنکھوں کے سامنے نقشہ پھر جانا۔
 آنکھوں میں صبح کرنا (۱- محاورہ) جاگتے جاگتے صبح کر دینا۔
 آنکھوں میں طراوت آنا (۱- محاورہ) آنکھوں میں ٹھنڈک آنا۔
 آنکھوں میں غبار آجانا۔ آنکھوں میں غبار چھا جانا۔ آنکھوں میں غبار ہوجانا۔ (۱- محاورہ) دھندلا نظر آنا۔
 آنکھوں میں کاجل بن کر پھرنا (۱- محاورہ) آنکھوں میں سمانا۔ آنکھوں میں بسنا۔
 آنکھوں میں کوٹ کوٹ کر مومنی بھرے ہیں (۱- مثل) نہایت خوبصورت آنکھیں ہیں۔
 آنکھوں میں کھٹے جانا (۱- محاورہ) پُرا فرنگہ ڈالنا۔ رغبت یا غصہ کی نگاہ سے دیکھنا۔
 آنکھوں میں کھٹنا (۱- محاورہ) نظروں میں سمانا۔ بھلا لگانا۔
 آنکھوں میں کھٹنا (۱- محاورہ) نظروں میں برا لگانا۔
 آنکھوں میں کھٹک ہونا (۱- محاورہ) آنکھوں میں درد ہونا۔ چھین ہونا۔

آنکھوں میں کہنا (۱۔ محاورہ) اشارے سے بات کرنا۔

آنکھوں میں گھر کرنا (۱۔ محاورہ) آنکھوں میں دینا۔ نظروں میں سمانا بجز زینتاً۔

آنکھوں میں لے جانا (۱۔ محاورہ) سامنے سے چیز دھو کا دے کر چرایینا۔

آنکھوں میں نقشہ پھر جانا (۱۔ محاورہ) کسی شے کی ہو ہو تصویر نگاہوں میں آجانا۔

آنکھوں میں انک (۱۔ محاورہ) دن ڈالنا (۱۔ محاورہ) آنکھیں پھوڑنا۔ اندھا کرنا۔

آنکھوں میں نون رانی۔ نظر بد دور کرنا۔

آنکھوں میں نہ آنا (۱۔ محاورہ) نظروں میں نہ چھنا۔ آنکھوں میں نہ سمانا۔

آنکھوں میں نیند (آجانا) بھرانا (سمانا) (۱۔ محاورہ) نیند سے آنکھیں بند ہونے لگنا۔ اُدکھنا۔

آنکھوں نے دیکھا نہ کانوں نے سنا (۱۔ محاورہ) کوئی عجیب یا خلاف قیاس واقعہ ہونا۔

آنکھوں والو! آنکھیں بڑی نعمت میں (۱۔ مفرد) اندھے فقیر صدا لگتے وقت کہتے ہیں کہ آنکھیں قدرت کا بہت بڑا عطیہ ہیں۔ ان کی قدر کرو۔

آنکھوں ہی آنکھوں میں (۱۔ محاورہ) اشاروں ہی اشاروں میں۔

آنکھوں ہی آنکھوں میں چرایینا (۱۔ محاورہ) سب کے سامنے چرایینا۔

آنکھوں کی کرنا۔

آنکھیں آسمان سے لگی (رہتی) ہیں (۱۔ مثل) (۱) نظر ہر وقت اوپر رہتی ہے۔

آنکھیں آنکھوں ہی نہیں (۲) حسرت و یاس کا ظہار۔

آنکھیں اُٹنا۔ (۱۔ محاورہ) آنکھیں دیکھنے آنا۔ آٹھ پچھ ہونا۔

آنکھیں ادھر ادھر ہونا (۱۔ محاورہ) نگاہیں پریشان ہونا۔

آنکھیں اُٹلی پڑنا (۱۔ محاورہ) دیدوں کا بہت اُبھرنا۔ سخت بیماری کی حالت ہونا۔

آنکھیں اُٹ جانا (۱۔ محاورہ) آنکھیں سوچ جانا (۲) پتلیاں چڑھ جانا۔

(۳) زیادہ نشہ ہونا (۴) مرنے کے قریب ہونا۔

آنکھیں آسنڈنا (۱۔ محاورہ) رونے کا جوش ہونا۔

آنکھیں اندر دھنس جانا (۱۔ محاورہ) آنکھوں کے ڈھیلوں کا حلقے میں بیٹھ جانا۔

آنکھیں انکاراں جانا (۱۔ محاورہ) غصے یا بیماری سے آنکھیں بہت سرخ ہوجانا۔

آنکھیں اُوریزنا اٹھانا (۱۔ محاورہ) خوف یا شرم سے آنکھیں اوچی نہ کرنا۔

بے لحاظ یا جیسا سے اُوریزنا دیکھنا۔

آنکھیں بچھانا (۱۔ محاورہ) بڑی خاطر مدارات کرنا۔ نہایت تعظیم و تکریم کرنا۔

آنکھیں بدلنا (۱۔ محاورہ) نگاہیں پھیر لینا۔ بے توجهی اور بے مروتی کرنا۔

(۲) جان کنی کے وقت پتلیاں بدلتا۔

آنکھیں بند کر کے کوئی کام کرنا (۱۔ محاورہ) اندھے پن سے کام کرنا۔

آنکھیں بند کرنا (۱۔ محاورہ) آنکھیں موندنا (۲) سونا آرام کرنا (۳) مرنا۔ انتقال کرنا۔

آنکھیں بند ہونا (۱) آنکھیں چھنا (۲) نیند آنا۔ غافل ہوجانا (۳) مرجانا۔

آنکھیں بھر لانا (۱۔ محاورہ) روانسا ہوجانا۔ آبدیدہ ہوجانا۔

آنکھیں بے نور ہوجانا (۱۔ محاورہ) آنکھوں کی روشنی جاتی رہنا۔

آنکھیں پانی ہو کر بہ جانا۔ (۱۔ محاورہ) اتنا زنا کر آنکھیں خراب ہوجائیں۔

آنکھیں پتھرانا (۱۔ محاورہ) آنکھوں کا بے نور ہونا۔ جان بلب ہونا۔ سرکنا۔

آنکھیں پٹ پٹانا (پٹر پٹر مارنا) (۱۔ محاورہ) جلدی جلدی آنکھیں بند ہونا۔

آنکھیں پیچہ ہونا (۱۔ محاورہ) اندھا ہوجانا۔ آنکھوں میں روشنی نہ رہنا۔

بینائی کا جانا رہنا۔

آنکھیں پر آب ہونا (۱۔ محاورہ) آنکھوں میں آنسو آجانا۔

آنکھیں پڑنا (۱۔ محاورہ) خاص توجہ ہونا۔ التفات کی نظر سے دیکھا جانا۔

آنکھیں اُپلٹ جانا (۱۔ محاورہ) اُپلٹنا (۱۔ محاورہ) بے مروت ہوجانا۔ تیور بدل لینا۔

(۲) مغرور ہونا۔

آنکھیں پونچھ ڈالنا (۱۔ محاورہ) آنسو پونچھ ڈالنا۔ رودھو کر چکا ہو رہنا۔

سیر رونا بند کرنا۔

آنکھیں پوچھنا (۱۔ محاورہ) کسی کے آنسو پوچھنا۔ تسلی دینا۔ ڈھارس بندھانا۔

آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنا (۱۔ محاورہ) بہت غور شوق یا رغبت سے دیکھنا (۲) حسرت سے دیکھنا (۳) معصیت میں گہرا کر دیکھنا۔

آنکھیں پھٹ گئی ہیں (۱۔ مثل) دولت ہلکے مغرور ہو گئے ہیں۔

آنکھیں پھٹنا (۱۔ محاورہ) (۱) حیران ہونا۔ ہکا بکا ہونا (۲) مغرور ہونا (۳) آنکھوں میں درد ہونا۔

آنکھیں پھٹی جاتی ہیں، آنکھیں پھٹی پڑتی ہیں (۱۔ مثل) اسر اور آنکھوں میں شدت سے درد ہونے پر کہتے ہیں۔

آنکھیں پھٹی ہوئی ہیں (۱۔ مثل) بہت کچھ دیکھا ہے۔ تھوڑی سی چیز نظر میں نہیں سامتی۔

آنکھیں پھر کے رہ جانا (۱۔ محاورہ) تیور کے مرجانا۔

آنکھیں پھراننا (۱۔ محاورہ) آنکھیں سچانا۔ آنکھیں ٹھکانا۔ غصہ وغرہ کرنا (۲) آنکھیں پھر جانا (۱۔ محاورہ) (۱) دیدے پھر جانا۔ علامت مرگ ظاہر ہونا (۲) بے مروت ہونا۔ مغرور ہونا (۳) تیوری چڑھ لینا۔

آنکھیں پھرکانا (۱۔ محاورہ) ناز و غرے سے بیدے ٹھکانا۔

آنکھیں پھوٹ ہونا (۱۔ محاورہ) بے اختیار آنسو جاری ہونا۔

آنکھیں پھوٹ جائیں (پھوٹیں) (۱) بددعا (۱) دوسرے کو بددعا کے طور پر (۲) اپنے متعلق بطور قسم۔

آنکھیں پھیر کے چل دینا (۱۔ محاورہ) کتر کے نکل جانا۔ منہ پھیر کے چلے جانا۔

آنکھیں پھیرے ٹوٹے کی سی یا میں کر کے مینا کی سی (۱۔ مثل) اس آدمی کی نسبت کہتے ہیں جو بیٹھی بائیں کر سے اور بے مروت ہو۔ ظاہر کچھ اور باطن کچھ۔

آنکھیں تروت (۱۔ محاورہ) کسی چیز کے دیکھنے کو آنکھوں کا مشتاق ہونا۔

آنکھیں ترش ہونا (۱۔ محاورہ) نظر سے غصہ ظاہر کرنا۔

آنکھیں تلوڑوں سے رگڑنا (ٹلٹنا) (۱۔ محاورہ) حقیقت کا اظہار کرنا۔ کلفت نظر ہونا (۲) خوشامد کرنا۔

آنکھیں تلی ہونا (۱۔ محاورہ) نظروں سے کسی بات کی آمادگی ظاہر ہونا۔

نہ نکھیں تلے اوپر ہو جانا (۱)۔ محاورہ انزع کے وقت پتلیاں پھر جانا۔
 نہ نکھیں تنک جانا (۱)۔ محاورہ دیکھتے دیکھتے آنکھوں کا گھبرا جانا۔ انتظار
 کی زیادتی کے اظہار کے لیے کہتے ہیں۔
 نہ نکھیں تنورا جانا (۱)۔ محاورہ آنکھیں خیرہ ہو جانا۔ آنکھوں میں اندھیرا آجانا
 نہ نکھیں ٹپٹانا (۱)۔ محاورہ آنکھوں کا نڈا ذرا کھلنا۔
 نہ نکھیں لوٹ آنا (۱)۔ محاورہ آنکھیں آجانا۔ نکھیں دکھنے آنا۔ آنکھیں جھکا
 آنکھیں ٹھنڈی رہیں۔ اپنی اولاد کی خوشیاں دیکھو اور ان کے دیدار سے
 ہمیشہ آنکھیں ٹھنڈی رہیں (دعا)
 نہ نکھیں جاتی رہنا (۱)۔ محاورہ آنکھوں کی روشنی کا جانا رہنا۔ اندھا ہو جانا۔
 نہ نکھیں جلنا (۱)۔ محاورہ آنکھوں میں سوزش ہونا۔ آنکھوں میں جلن ہونا۔
 نہ نکھیں چھینکا (۱)۔ محاورہ آنکھیں کھلنا اور بند ہونا۔ روشنی کی تاب نہ
 لانا۔ آنکھیں سامنے نہ ہوسکنا۔ آنکھیں سچی ہوں۔ شرمندہ ہونا۔ (۳۱) نیند نہ آنا۔
 نہ نکھیں جھکنا (۱)۔ شرمسار ہونا۔ شرم سے سچی نگاہ رکھنا۔ (۳۲) آنکھیں دکھنے آنا
 آنکھیں چار طرف چکر مکر چلی جاتی ہیں (۱)۔ مثل شرمی سے نگاہ ایک
 طرف نہیں ٹھہرتی۔ نہایت شوخی دیدہ ہے۔
 نہ نکھیں چار طرف رکھنا (۱)۔ محاورہ چاروں طرف دیکھتے رہنا۔
 ٹھکانی رکھنا۔
 نہ نکھیں چار نہ کرنا (۱)۔ محاورہ آنکھ سے آنکھ نہ ملانا۔ شرمانا۔
 نہ نکھیں چار ہونا (۱)۔ محاورہ ایک دوسرے کے سامنے ہونا۔ مقابل ہونا۔
 نہ رو رو ہونا۔ دوچار ہونا۔ ملائی کوڑا۔ محبت ہونا۔
 نہ نکھیں چیرانا (۱)۔ محاورہ چشم روشنی کرنا۔ تجاہل عرفانہ کرنا۔ کتراتا۔
 نہ نکھیں چیرنے لگی ہیں۔ کیا آنکھیں غیر حاضر ہیں۔ کیا دکھائی نہیں دے رہا۔
 نہ جب کوئی شخص اپنے سامنے کی چیز کو نہ دیکھتے تو اس سے یہ گلہ کہتے ہیں۔
 نہ نکھیں چڑھانا (۱)۔ محاورہ (۱) تیوری چڑھانا۔ خفا ہونا۔ خاطر میں نہ لانا۔
 نہ نکھیں چڑھنا (۱)۔ نکھیں چڑھی ہوئی ہونا (۱)۔ محاورہ آنکھوں میں شراب
 یا نیند کا شمار ہونا۔
 نہ نکھیں چمکانا (۱)۔ محاورہ دیدے مشکاتنا۔ تازہ خمر سے آنکھیں گھمانا۔
 نہ نکھیں چندھیا جانا (۱)۔ محاورہ چاندھیانہ (۱)۔ محاورہ اچکا چوند ہونا۔ آنکھیں
 بڑھک جانا۔
 نہ نکھیں چندھی ہونا (۱)۔ محاورہ آنکھیں چھوٹی ہونا اور پوری نہ کھلنا۔
 نہ نکھیں چھت (سے) کو لگ جانا (۱)۔ محاورہ (۱) آنکھیں اوپر چڑھ جانا
 نہ نکھوں کی پتلی پھر جانا۔ علامت مرگ کا ظاہر ہونا (۳۲) نہایت انتظار کرنا۔
 نہایت متفکر ہو کر چھت سے آنکھیں لگانا (۳۱) منگی بندھ جانا۔ کسی چیز کو
 گھروں تکنے رہنا۔
 نہ نکھیں چیر کے نیک بھرنا (۱)۔ محاورہ نیند مٹانے کی تدبیر کرنا۔
 نہ نکھیں خزان میں ڈوبنا (۱)۔ محاورہ مارے غصے کے آنکھیں لال ہونا۔
 نہ نکھیں در پر تکی ہونا۔ انتظار میں ہونا۔ راہ دیکھنا
 نہ نکھیں (دکھانا) دکھلانا (۱)۔ غضب کی نگاہ سے دیکھنا۔ ڈرانا۔ دھکی دینا
 نہ غصہ کرنا (۲۱)۔ سامنے ہونا۔ مقابلہ کرنا۔
 نہ نکھیں دکھنا۔ آنکھیں دکھنے آنا (۱)۔ محاورہ آنکھوں کا سرخ ہو جانا۔

نہ نکھوں میں آسٹوب آنا۔
 نہ نکھیں دوڑانا (۱)۔ محاورہ نظر ڈالنا۔ سب طرف دیکھنا۔ چاروں طرف
 دیکھنا۔ چاروں طرف نظر ڈالنا۔
 نہ نکھیں (دیکھا کرنا) دیکھنے رہنا (۱)۔ محاورہ (۱) لطف و عنایت کا امیڈوار
 رہنا (۲) اطاعت پر اس طرح آمادہ رہنا کہ اشارہ ہوا اور تعمیل کرے۔
 نہ نکھیں دیکھتی ہیں (۱)۔ مثل (۱) آنکھیں منظر میں۔ آنکھیں مشتاقی ہیں۔
 نہ نکھیں دیکھی ہیں (۱)۔ محاورہ صحبت اٹھاتی ہے۔ تربیت پاتی ہے۔
 نہ نکھیں دیوار ہو جانا (۱)۔ محاورہ کچھ نہ سوچنا۔ کچھ دکھائی نہ دینا۔
 نہ نکھیں ڈبٹانا (۱)۔ محاورہ آنکھوں میں آسٹوب آنا۔
 نہ نکھیں ڈگر ڈگر کرنا (۱)۔ محاورہ آنکھوں سے ناتوازی ظاہر ہونا۔ ضعف تقا
 اور کمزوری کا اظہار۔
 نہ نکھیں ڈھلنا (۱)۔ محاورہ مائل نظارہ ہونا۔ نظارہ کرنا۔
 نہ نکھیں ڈھونڈتی ہیں (۱)۔ محاورہ آنکھیں دیکھنا چاہتی ہیں۔ دیکھنے کا
 بے حد اشتیاق ہے۔
 نہ نکھیں رکھنا (۱)۔ محاورہ تیز رکھنا۔ تجر بہ کار ہونا۔ جاوہ اور پرکھ رکھنا۔
 نہ نکھیں لگ کرنا۔ کسی چیز پر آنکھیں زور زور سے ملنا۔
 نہ نکھیں رو رو کے (لال) خون کبوتر کرنا (۱)۔ محاورہ بہت رونا جس
 سے آنکھیں سرخ ہو جائیں۔
 نہ نکھیں رو رو کرنا (۱)۔ محاورہ (۱) کسی چیز، عزیز یا ترنگ کے دیدار سے
 نہ نکھوں کو تازگی دینا (۲)۔ اندھے کی آنکھوں کو علاج سے بنا کرنا۔
 نہ نکھیں رو رو کرنا (۱)۔ مثل (۱) آنکھیں کھلنا۔ آنکھوں میں روشنی ہونا۔ آنکھوں
 میں بینائی ہونا۔ آنکھوں میں تازگی و طراوت آنا۔
 نہ نکھیں زمین سے لگ جانا (۱)۔ محاورہ نہایت ندامت حاصل ہونا۔
 نہ شرم کے مارے آنکھ اٹھ نہ سکنا۔
 نہ نکھیں سفید ہونا (۱)۔ محاورہ (۱) حد درجہ انتظار کرنا (۲) آنکھیں پٹم
 ہونا۔ اندھا ہونا۔
 نہ نکھیں سی کھل گئیں (۱)۔ مثل (۱) آنکھوں میں طراوت اور تازگی آگئی۔
 کسی عمدہ چیز کے مل جانے یا نظر آنے پر حیرانی ظاہر کرنے کے لیے یا کسی
 چیز کی حقیقت معلوم ہوجانے کی جگہ۔
 نہ نکھیں سینا (۱)۔ محاورہ (۱) پلک سے پلک سی دینا (۲) کسی چیز پر ہر وقت
 نگاہے رہنا۔
 نہ نکھیں سیننا۔ پوٹلی یا کر آنکھوں پر لگانا (۳) حسبنوں کی دید بازی کرنا۔
 نہ نکھیں فرس راہ کرنا۔ قدموں کے نیچے آنکھیں بچھا۔ نظم و تواضع سے
 پیش آنا۔
 نہ نکھیں قدموں پر ملنا۔ آنکھیں قدموں تلے پھجانا (۱)۔ محاورہ کمال
 و اخلاص و محبت سے پیش آنا۔ بہت تواضع اور ذمہ لگ کرنا۔
 نہ نکھیں کھڑانا (۱)۔ محاورہ آنکھوں میں نیند بھرنا۔ نیند کا شمار ہونا (۳) آنکھیں
 کھلنا (۳) دھوئیں کی وجہ سے آنکھوں میں مٹی خارش ہونا۔
 نہ نکھیں کور ہو جانا (۱)۔ محاورہ اندھا ہو جانا۔
 نہ نکھیں کھل جانا (۱)۔ محاورہ (۱) جاگ اٹھنا (۲) متنبہ ہونا۔ ہوشیار ہو جانا۔

آنکھیں نہ کھولنا (۱۔ محاورہ) (۱) چشم ڈاکرنا۔ شرم حجاب یا نفرت کے باعث آنکھیں کھول کر کسی چیز کو نہ دیکھنا (۲) ہوش میں نہ آنا (۳) بیماری کے سبب غفلت میں پڑا رہنا۔

آنکھیں نہ ملانا (۱۔ محاورہ) (۱) شرمانا۔ آنکھ سامنے نہ کرنا (۲) متوجہ نہ ہونا۔ بات نہ پوچھنا۔

آنکھیں نیکی پینی کرنا (۱۔ محاورہ) غصہ کرنا۔ چین بچیں ہونا۔ توری چڑھنا۔ آنکھیں ہونا (۱۔ محاورہ) (۱) سبق حاصل ہونا (۲) حواس درست ہونا۔ سمجھ آنا۔ ہوش آنا۔ عقل آنا۔

آنکھیں ہونٹیں چار دل میں آیا پیار۔ آنکھیں ہونٹیں اوٹ دل میں آئی کھوٹ (۱)۔ مثل اسانے محبت کرنا اور پیچھے بالکل کھول جانا۔ آنکھیں ہونٹیں یا بھینس کے چوڑے (۱)۔ مثل (دیکھ کر کام نہ کرنا۔ بے نوجی ہونے سے کام کرنا۔

آنکھیں (آں۔ آن۔ اند) گھر کے اندر کا حصہ۔ اگھائی۔ آنکھی (آن۔ گھی) (س۔ ا۔ مٹ) مہین کپڑے کی منڈھی ہوتی جھلی جس سے میدا بھانتے ہیں۔ آنکی (آن۔ گی) (ا۔ مٹ) انگلیا۔ چولی۔

آنند (آ۔ نند) (صفت) شادمانی۔ روحانی خوشی۔ راحت۔ آرام۔ چین۔ آنند بڑھاوا (ا۔ ۵)۔ مذ) مبارک یادی۔ خوشی کا لگت۔ خوشی کا نیک۔ بدھائی۔ شادیا نہ۔

آنند رہتا (مص۔ مرکب) خوش رہنا۔ مگن رہنا۔ آنند کرنا (مص۔ مرکب) خوشی منانا۔ چین کرنا۔

آنند کے تازہ بجانا (۱۔ محاورہ) بے نگرہی سے اذقات بسر کرنا۔ عیش و عشرت سے گزارنا۔

آنند منگل (۱۔ مذ) (۱) خوشی۔ عیش و عشرت۔ ہنسی مذاق (۲) آرام۔ راحت۔

آنند ہونا (۱۔ محاورہ) (۱) خوش ہونا۔ مگن ہونا (۲) سیر ہونا۔ آنندی (آ۔ ن۔ دی) (۱۔ ۵)۔ مذ) خوشی۔ سکھی۔ شادمانی۔

آنندی پریش (۱۔ ۵)۔ مذ) ہنس بکھ۔ خوش مزاج۔ ظریف۔ آنو (آن۔ او) (۱۔ ۵)۔ مٹ) ایک قسم کا چمنا سفید لیس دار مادہ۔ جو پیش میں پانخانہ کے ساتھ آتا ہے۔

آنو آنا (۱۔ محاورہ) آنو کا اجابت میں لکھنا۔ آنو بڑھنا (۱۔ محاورہ) پیٹ میں آنو کا پیدا ہونا پیش ہونا۔

آنو کے پھے نکلے۔ آنو نکلے میں اٹھی (۱)۔ مثل (بے محل قراوت چھانٹنے یا اچھو ہوجانے پر کہتے ہیں۔

آنول (آن۔ دل) (۱۔ ۵)۔ مٹ) وہ جھلی جو بچے کی پیدائش کے وقت اس کے ساتھ لگی ہوتی ہے۔

آنول نال۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی ناف انٹری کی طرح بڑھی ہوتی ہوتی ہے۔ وانی اُسے اسی وقت کاٹ ڈالتی ہے۔ اس کے اخیر میں ایک غلیا بھی لگی ہوتی ہوتی ہے۔ اس کل ہیئت مجموعی کا نام

آنول نال ہے۔

حقیقت کھلنا۔ عبرت ہونا۔ (۳) حیران ہوجانا۔

آنکھیں کھلنا (۱۔ محاورہ) جاگن۔ بیدار ہونا (۲) حقیقت واضح ہونا (۳) اہم لینا۔ ہوش سنبھالنا۔ (۴) بگا بگا جانا۔

آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جانا (۱۔ محاورہ) (۱) سکتے کی حالت میں دم نکل جانا۔ (۲) حیران ہوجانا۔ دم بخود ہوجانا۔

آنکھیں کھلی ہونا (۱۔ محاورہ) (۱) پوری آنکھیں بند نہ ہونا (۲) زندہ ہونا۔ صحیح سلامت ہونا (۳) ہوشیار ہونا۔ چوکس ہونا۔

آنکھیں کھولنا (۱۔ محاورہ) چشم ڈاکرنا۔ جاگن۔ ہوشیار ہونا (۲) عبرت پکڑنا (۳) پیدا ہونا۔

آنکھیں کھولنا (۱۔ محاورہ) اندھا ہونا۔ بے بصر ہونا۔ بینائی زائل کرنا۔ آنکھیں کیا کھوٹ گئی ہیں؟ نظر نہیں آتا؟ غفلت یا بے پروائی

سے کام کرنے والے سے کہا جاتا ہے

آنکھیں گدی میں ہونا (۱۔ محاورہ) (۱) گدی کے پیچھے آنکھیں ہونا۔ سامنے کی چیز دکھائی نہ دینا۔ (۲) خود بینی کے نشہ میں اندھا ہونا۔ اچھا برتا نہ دیکھنا۔ سمجھے بوجھے بغیر کوئی کام کر بیٹھنا۔ عالم شباب کے باعث حرکات

ناشائستہ میں اندھا ہونا۔ مستی کے سبب نیک و بد کا دھیان نہ کرنا۔

آنکھیں گرم کرنا (۱۔ محاورہ) غصے سے دیکھنا۔ گھورنا۔ دید بازی کرنا۔ آنکھیں گر جانا (۱۔ محاورہ) کسی چیز پر نظر گر جانا۔ کسی چیز کو برابر تک جانا گھورنا

بیدوں کی طرح دیکھنا۔

آنکھیں گلابی ہونا (۱۔ محاورہ) آنکھیں سرخ ہونا۔ آنکھوں میں سرور آنا۔ آنکھوں میں نشہ ظاہر ہونا۔

آنکھیں لال کرنا (۱۔ محاورہ) غصے سے نیلا پلا ہونا۔ رو رو کر آنکھیں سرخ کرنا۔ آنکھیں لگائے رہنا (۱۔ محاورہ) برابر دیکھتے رہنا۔ نظر جمی ہونا۔

آنکھیں لگنا (۱)۔ منگی بندھنا۔ انتظار کرنا۔ راہ دیکھنا (۲) عشق ہونا۔ محبت ہونا۔

آنکھیں مانگنا (۱۔ محاورہ) آنکھوں کی روشنی چاہنا۔ بینائی مانگنا۔ بصارت کا طالب ہونا۔

آنکھیں منگنا (۱۔ محاورہ) آنکھیں گھمانا۔ نخرے کرنا۔ آنکھیں پچھانا۔

آنکھیں منگنا (۱) آنکھوں کو ہاتھ سے دگڑنا۔ آنکھوں پر ہاتھ پھیر کر نیند کا خمار دور کرنا۔ آنکھیں کھولنے کی تدبیر کرنا (۲) حسن عقیدت یا فرط محبت کے باعث کسی چیز سے آنکھیں گھسنا۔

آنکھیں منرتے کیا دیکھتے ہیں (۱)۔ مثل (آنکھ بند ہوتے یعنی مرتے دیر نہیں لگتی۔ زندگی کا کیا بھروسہ ہے۔

آنکھیں موہ لیتا (موہنا) (۱۔ محاورہ) آنکھیں بند کر لینا (۲) مرجانا (۳) بے خبر ہونا۔

آنکھیں مٹکانا (۱۔ محاورہ) انا راض ہونا۔ غصے ہونا۔ لال پلا ہونا۔ ڈرانا۔

آنکھیں نہ اٹھانا (۲) خیر یا پھری کی نوک سے آنکھوں کو باہر نکال ڈالنا۔ اندھا کرنا۔ آنکھیں نہ اٹھانا (۱۔ محاورہ) آنکھیں سامنے نہ کرنا۔ شرم یا حیا سے آنکھیں ادنیٰ نہ کرنا۔ شرمانا۔

آٹول پتی (آں۔ دل۔ بیت۔ تی) [۱-۵-۱-۵] منٹ [ایک قسم کی سلائی جس سے پتی کی طرح دونوں طرف ترچھے ٹانگے مارے جاتے ہیں۔
آٹول گنا (آں۔ دل۔ بکٹ۔ جٹا۔ ۱-۵-۱-۵] منٹ [آنولے کا سوکھا ہوا پھل۔
آنولے کا ڈال میں سوکھا ہوا پھل۔

آنولہ (آں۔ دل۔ ۱-۵-۱-۵] منٹ [ایک کیسلا پھل۔ دیکھئے آملہ۔
آنولہ سار گندھک (۱-۵-۱-۵] منٹ [اصناف کی ہوتی گندھک۔ جس کا رنگ آنولے کے رنگ سے مشابہ ہوتا ہے۔
آنولے کا کھایا بڑے کا کھایا پیچھے مزہ آیا (۱-۵-۱-۵] منٹ [ناگوار نصیحت کا نتیجہ بعد میں معلوم ہوتا ہے۔

آسنہ (آ۔ نہ) [۱-۵-۱-۵] منٹ [پرانے روپے کا سوکھا حصہ پرانے چار پیسے پرانا سکہ چار پیسوں کے برابر ہوتا تھا۔ آنا۔

آسنہ بانی (۱-۵-۱-۵] منٹ [کوڑی کوڑی۔ پورا پورا
آسنہ پانی کا حساب کرنا۔ (۱-۵-۱-۵] منٹ [کفایت شعاری کرنا۔ گنجوسی کرنا۔
آسنہ قرض ادا کرنا۔

آئی (آ۔ تی) [۱-۵-۱-۵] منٹ [دودھ سے مکھن بچانے کا آلہ۔ مٹھانی۔
دھانی۔

آئی بانی (۱-۵-۱-۵] منٹ [چھپر چھاڑ۔ ہنسی مذاق۔
آئی جانی [۵-۱-۵] منٹ [آجے تبات۔ ناپائدار۔ خانی۔

آ۔ و۔

آوا (آ۔ و) [۱-۵-۱-۵] منٹ [کمار کی بھٹی۔ کماروں کے برتن پکانے کا گڑھا۔
پنزروہ۔ بھٹا۔

آوا کرتا۔ برتنوں کا ایک کربھی سے نکلتا۔
آوا بگڑنا۔ اوے کا آوا بگڑنا (۱-۵-۱-۵] منٹ [تمام برتنوں کا بگڑنا (۲) خاندان کا خاندان بگڑنا۔ سارے خاندان کا برائیوں میں مبتلا ہوجانا۔
آوا چڑھنا۔ بھٹی میں برتنوں کا پکنے کے واسطے رکھا جانا۔

آوے کا آوا خراب ہے (۱-۵-۱-۵] منٹ [سارا خاندان خراب سے
آوے میں ناگوار گھوگھی (۱-۵-۱-۵] منٹ [بددیانتی کر کے معصوم بننے کی کوشش۔
آوا جانی (۵-۱-۵] منٹ [آمدورفت۔ آنا جانا۔

آوا جانی لگا رکھی سے (۱-۵-۱-۵] منٹ [بے موقع اور بلا ضرورت آمدورفت۔
آوا دانی (۱-۵-۱-۵] منٹ [آبیاری۔ آبیاری (۲) رفت۔ کھائی چل پھل
(۳) بونی جوئی زمین۔

آوارہ (آ۔ وار۔ جہ) [۱-۵-۱-۵] منٹ [روزنامہ جمع خرچ۔
آوارگی (آ۔ وار۔ رگی) [۱-۵-۱-۵] منٹ [اجزائی۔ پریشانی۔ پراندگی۔
خرابی (۲) بد معاشی۔ شہدین۔ گمراہی۔

آوارہ (آ۔ وا۔ رہ) [۱-۵-۱-۵] منٹ [آجے ہودہ۔ پریشان خراب خستہ
(۳) اوباش۔ بدچلن۔ شہدا۔

آوارہ پھرتا (۱-۵-۱-۵] منٹ [خراب خستہ پھرتا۔ بھگتا پھرتا۔ مارا مارا پھرتا۔
آوارہ کرتا (۱-۵-۱-۵] منٹ [بدچلن بنانا۔ لگاڑنا۔ اوباش بنانا۔ خراب کرنا۔

آوارہ گرو (۱-۵-۱-۵] منٹ [مارا مارا پھرنے والا۔ بدچلن۔

آوارہ گروی (۱-۵-۱-۵] منٹ [بدچلنی۔ سرگردانی۔ مارا مارا پھرتا۔

آوارہ مزاج (۱-۵-۱-۵] منٹ [لاابالی۔ بدچلن۔

آوارہ وطن (۱-۵-۱-۵] منٹ [مسافر۔ پردیسی۔

آوارہ ہوتا (۱-۵-۱-۵] منٹ [پریشان ہونا۔ پراگندہ ہونا۔ سرگرداں ہونا۔ بدچلن ہونا۔ بدراہ ہونا۔

آواز (آ۔ وار) [۱-۵-۱-۵] منٹ [لفظ۔ بول۔ الاپ۔ ہانک۔ پکار۔ صدا
(۲) غل۔ شور۔ چیخ (۳) نفیر کی صدا۔ پکار کر بچنے کی صدا (۴) کھڑکا۔ آہٹ
دھماکا۔ (۵) راک۔ نغمہ۔ آہنگ (۶) شہرہ۔ چیخ۔ نیک نامی کا آوازہ۔

آواز آنا (۱-۵-۱-۵] منٹ [لفظ سنائی دینا۔ کان میں بول پڑنا۔ کان میں جھک آنا۔
نہانے غیب آنا۔

آواز اٹھانا (۱-۵-۱-۵] منٹ [کانوں میں آواز کا اوجھل کرنا۔ آواز بھرنا۔
آواز (اکھڑنا) اکھڑنا (۱-۵-۱-۵] منٹ [آواز بے سہمی ہوجانا۔

آواز بدل جانا (۱-۵-۱-۵] منٹ [کسی وجہ سے آواز میں فرق آنا۔ لہجہ تبدیل ہوجانا۔
آواز بدلنا (۱-۵-۱-۵] منٹ [اصل آواز بدل دینا۔ لہجہ تبدیل کرنا۔

آواز بڑھانا (۱-۵-۱-۵] منٹ [آواز بلند کرنا۔
آواز بگڑ جانا (۱-۵-۱-۵] منٹ [اچھی آواز کا بُرا ہوجانا۔

آواز بلند کرنا (۱-۵-۱-۵] منٹ [چلا کے بولنا۔ اونچی آواز سے پڑھنا۔
آواز بند کر دینا (مص مرکب) خاموش کر دینا۔ چپ کر دینا۔

آواز بند ہونا۔ آواز بھاری ہونا۔ آواز بھرا آنا۔ آواز بٹھنا۔ (۱-۵-۱-۵] منٹ [
آواز بڑھنا۔ کلا جگر جانا۔ آواز نہ ٹھکانا۔ کانوں سے یا چلانے سے آواز کا

بھٹ جانا۔
آواز پیا (۱-۵-۱-۵] منٹ [پاؤں کی آہٹ۔ پاؤں کی آواز۔

آواز پر آنا (۱-۵-۱-۵] منٹ [پکارنے کے ساتھ ہی آنا۔ سدھائے ہوئے
پرند کا آواز سننے ہی آ جانا۔

آواز پر کان (دھرتا رکھنا) لگانا (۱-۵-۱-۵] منٹ [نہایت غور سے سنا۔
دھیان دے کر سنا۔ توجہ سے سنا۔

آواز پر کوئی لگانا (۱-۵-۱-۵] منٹ [دیکھے بغیر آواز پر نشانی لگانا (۲)
قادر اندازی۔

آواز پر لگانا (۱-۵-۱-۵] منٹ [جانوروں کو ایسا سدھانا کہ وہ آواز سننے ہی
پاس چلے آتی باجو کام کرنے کو کہا جائے کرنے لگیں۔

آواز پر (پہ) لگنا (۱-۵-۱-۵] منٹ [آواز نہ پھرتا۔ آواز پر بولنا۔ آواز پر آنا۔ بل
جانا۔ مایوس ہوجانا۔ بولی بھگنا۔

آواز پر پڑنا (۱-۵-۱-۵] منٹ [لگا بیٹھنا۔ آواز بھاری ہونا۔ (۲) بلانے کے لیے
نام لے کر کسی کو پکارا جانا۔ علامت میں کسی کے نام کی آواز بلند ہونا۔

آواز بیٹھنا (۱-۵-۱-۵] منٹ [آواز بھاری ہونا۔ آواز کا آہنگ خراب ہوجانا۔
آواز پھولنا (۱-۵-۱-۵] منٹ [آواز کا بھاری ہوتا اور صاف نہ ٹھکانا۔

آواز سیدھا ہوتا (مص مرکب) آواز ٹھکانا۔
آواز ٹھرتا (مص مرکب) آواز کا پھرتا۔ آواز بھرتا۔ آواز میں لرزش ہونا۔

آواز جانا (مص مرکب) آواز کا پھینچنا۔

آواز جرس۔ آواز در اف۔ ا۔ مرث اگھنے کی آواز قافلے کے پیچھے
 دیکھنے گھننے کی آواز۔
 آواز زنجیر جھاننا (۱) محاورہ انزل کی وجہ سے آواز بیٹھ جانا۔
 آواز زوب جانا (۱) محاورہ آواز کا بست ہو جانا۔
 آواز دہندہ (۱) مذ (۱۱) آواز دینے والا۔ (۱۲) بولی بولنے والا۔ نیلام پکانے
 والا۔ نیلام کتنده۔
 آواز دینا (۱) محاورہ پکارنا۔ طلب کرنا۔ بلانا (۲) صدا کرنا۔
 آواز ڈوگ میں آنا (۱) محاورہ زمانہ بلوغ میں گنٹھ چھوٹنے سے آواز
 بھاری ہو جانا۔
 آواز سگاں کم نہ کند رزق گذارا اف۔ مثل اکتوں کے بھونکنے سے
 گذار کر کی خیرات بند نہیں ہوتی۔ یعنی بدباطن لوگوں کے باعث کسی
 کی روزی کم نہیں ہوتی۔
 آواز سنانا (۱) محاورہ اپنی آواز دوسرے کے کان تک پہنچانا۔
 آواز سننا (۱) آواز سنائی پڑنا (۱) دینا (۱) محاورہ کانوں میں آواز پہنچنا۔
 آواز سے آواز ملنا (۱) محاورہ (۱) شعر سے شعر ملنا (۲) ایک آواز کا دوسری
 آواز سے مشابہ ہونا۔
 آواز سے سگون لینا (۱) محاورہ عورتیں اور عوام بعض جانوروں کی آوازوں
 سے قال لیتے ہیں۔
 آواز صاف (۱) ہو جانا (۱) ہونا (۱) محاورہ اگلا صاف ہو جانا۔ آواز کا بھاری پن
 نازل ہو جانا۔ درست آواز ٹھکانا۔
 آواز صورت۔ صورت کی آواز۔ مسلمانوں کے عقائد کے مطابق صورت ایک بابے
 یا بچل کی مانند ہے۔ خدائے تعالیٰ کے حکم سے حضرت اسماعیل (رضی اللہ عنہما) نے
 جس وقت اس میں پھونک لگا تیس گئے، ہر چیز فنا ہو جیسے گی اور قیمت
 آجلنے گی۔
 آواز غیب (ف۔ ع۔ مٹ) (۱) مٹا ہوا کی آواز۔ باقی کی آواز۔ آواز جو عالم
 غیب سے آئے۔
 آواز قدیم (ف۔ مٹ) (۱) مٹا ہوا کی آواز۔
 آواز کا آواز چڑھاؤ۔ آواز کا بیجا آواز۔
 آواز کا بارط۔ آواز کی رسائی۔ آواز کی حد۔
 آواز کا باط نہ ملنا۔ (۱) محاورہ آواز کا بہت بلند ہونا۔
 آواز کرنا (۱) محاورہ (۱) پکارنا۔ آواز دینا (۲) بندوق چھوڑنا۔ توپ داغنا
 (۳) جینا (۴) فیکر صدا دینا۔
 آواز کستا (۱) محاورہ آواز کی آواز لگانا۔
 آواز (کھلنا) کھل جانا (۱) محاورہ آواز صاف ہونا۔ آواز میں سے خشونت
 کا دور ہونا۔
 آواز کی اٹھان (۱) مٹا، آواز کی ابتدا۔ گاتے وقت شعر کا بلند آواز سے
 شروع کرنا اور پچھے سڑ میں آواز ہونا۔
 آواز گھرا (۱) محاورہ آواز کا ہلکا ہونا۔ نیچے سرون میں آواز ہونا۔
 آواز گریب۔ رونے کی آواز۔
 آواز گوش آشنا ہونا (۱) محاورہ آواز کا پہلے سے سنا ہونا ہونا۔ آواز کی

پہچان ہونا۔
 آواز گوش زد ہونا (۱) محاورہ آواز سنائی پڑنا۔
 آواز گویا (مص مرکب) دیر تک کسی بند مکان یا گنبد میں آواز کا اثر
 باقی رہنا۔
 آواز لڑنا (۱) محاورہ آواز ملنا۔ آواز کا ٹپکھانا۔ آواز میں آواز ملنا۔ ہم آہنگ
 ہو جانا۔ ایک سر پر پہنچنا۔
 آواز لگانا (۱) محاورہ (۱) آواز دینا۔ پکارنا (۲) پکار کے جینا۔ (۳) صدا دینا۔
 مانگنا۔ بھیک مانگنا (۴) اگانا۔ مانگنا۔
 آواز ملنا (۱) محاورہ باہم آواز ملا کر لگانا۔
 آواز میں آواز ملنا (۱) محاورہ بول سے بول ملنا ہم آہنگ ہونا۔ سرون
 میں برابر آجانا۔ سڑ سے سڑ ملنا۔
 آواز میں پتی لگ جانا (۱) محاورہ کسی سبب سے آواز کھر کھرانے لگانا۔
 آواز میں پیچ دینا (۱) محاورہ آواز دینے وقت خوبصورتی کے ساتھ آواز لگانا۔
 آواز میں پھریاں (کٹریاں) بھری ہیں (۱) مثل بہت موثر اور درناک
 آواز ہے۔
 آواز میں گھٹکا ہونا (۱) محاورہ آواز میں بہت ہی پر اثر اور پسندیدہ
 کیفیت ہونا۔
 آواز میں لہوچ ہونا (۱) محاورہ آواز میں نرمی اور نرمکوت ہونا۔
 آواز میں نمک ہونا۔ آواز میں درد ہونا۔ سوز ہونا۔
 آواز نکالنا (۱) محاورہ (۱) بولنا۔ منہ سے بات نکالنا (۲) رونا۔ جینا (۳) گانا
 شروع کرنا۔
 آواز ٹھکانا (۱) محاورہ (۱) صدا آنا (۲) منہ سے بات ٹھکانا۔
 آواز نہیں چلتی۔ آواز کام نہیں دیتی۔
 آواز ہونا (۱) محاورہ کسی چیز سے آواز ٹھکانا۔
 آوازہ (آ۔ وارزہ) (ف۔ ا۔ مذ) (۱) شہرہ۔ ناموری۔ غنغلہ۔ افراہ۔ ہونما
 (۲) غل۔ شور (۳) طعنے (۴) کسی چیز کے گھوننے کی آواز۔ صدا۔ نثر اقا۔
 (۵) گوز۔ باد۔ بھڑکا۔
 آوازہ بلند ہونا (۱) محاورہ (۱) مشہور ہونا۔ بڑا نام ہونا۔ ناموری ہونا۔ دھوم
 مچنا۔ (۲) شور پیدا ہونا۔
 آوازہ پہنچنا (۱) محاورہ شہرت پہنچنا۔
 آوازہ پھیلنا (۱) محاورہ شہرت ہونا۔
 آوازہ پھینکنا۔ آواز سے پھینکنا (۱) محاورہ فقرہ کستا۔ طعنے دینا۔ آوازہ کستا۔
 آوازہ توڑہ۔ بولی ٹھوٹی۔ طعنے۔ طعنہ۔ طعن تشنیع۔
 آوازہ ستانا (۱) محاورہ طعنے دینا۔ بولی ٹھوٹی مارتا (۲) پاونا۔
 آوازہ کرنا (۱) محاورہ (۱) پھسکارنا۔ چٹھارنا (۲) بندوق یا توپ چھوڑنا
 داغنا (۳) کسی چیز کو توڑنا۔ اوپر سے دے مارنا۔ پٹک دینا (۴) طعنے دینا
 (۵) طنز کرنا۔ ٹھٹھا مارنا۔
 آوازہ کستا (۱) محاورہ طنز کرنا۔ چھڑنا۔ فقرہ حسرت کرنا۔
 آوازہ مارتا (۱) محاورہ (۱) طعنے دینا۔ چھڑنا (۲) آواز ستانا۔
 آواز سے ستنا (۱) محاورہ طعن و تشنیع ستنا۔

آواز سے کرنا (۱۔ محاورہ) طنز سے کچھ کہنا۔

آواز سے کہنا (۱۔ محاورہ) طعنہ زنی کرنا۔ پھڑکانا۔

آواگون (آء۔ واگ۔ ون) (۱۔ مذ) آنا۔ جانا۔ آمد و رفت۔ ہندوؤں کے اعتقاد کے مطابق بار بار مرنے اور جنم لینے کا سلسلہ۔ تناسخ۔

آور (آء۔ ور) (ن) صفت آلانے والا۔ مرکبات میں مستعمل ہے جیسے خواب آور۔

آورد (آء۔ ورد) (ن) (۱۔ مٹ) تکلف اور بناوٹ (۲۱) تکلف سے شعر کہنا۔ کوشش سے بات پیدا کرنا۔

آوردہ (آء۔ ور۔ وہ) (ن) (۱۔ مذ) لایا ہوا۔ متوسل۔ طفیل۔

آویختہ (آء۔ ویخ۔ تہ) (ن) صفت [پٹنا ہوا۔ ٹکا ہوا۔

آویزاں (آء۔ وے۔ زان) (ن) صفت [ٹکا ہوا۔ معلق۔

آویزاں کرنا۔ لٹکانا۔

آویزش (آء۔ وے۔ زش) (ن) (۱۔ مٹ) [چقیقلش۔ لڑائی۔ فساد

آویزہ (آء۔ وے۔ زہ) (ن) (۱۔ مذ) کان کا زیور۔ بندہ۔ بالہ۔

۵-۱

آہ (ف۔ مٹ) (۱۱) کلمہ افسوس۔ ہائے۔ ولے۔ افسوس۔ اُف (۲۱) سانس۔ دم۔ نفس۔

آہ آہ اٹھنا۔ دل سے آہ نکلنا۔

آہ آہ کرنا۔ ہائے ہائے کرنا۔ کراہنا۔

آہ اللہ۔ ہائے افسوس۔ حالت رنج و غم میں خدا کا نام زبان پر آنا۔

آہ بھر کر رہ جانا (۱۔ محاورہ) یکجہ نغمہ کے رہ جانا۔ افسوس کہے رہ جانا۔

صدمہ پر صبر کر کے چپ ہو رہنا۔

آہ بھرنا۔ ہائے ہائے کرنا۔ کراہنا۔ افسوس کرنا۔

آہ پٹنا (۱۔ محاورہ) کسی کی آہ سے تکلیف پہنچنا۔ بد دعا کا اثر ہونا۔

آہ چکر (ف۔ مٹ) (ن) صفت [دل سے نکلی ہوئی ہائے۔

آہ خالی نہ جانا (۱۔ محاورہ) فریاد کا با اثر ہونا

آہ روکنا (۱۔ محاورہ) آہ کا ضبط کرنا

آہ سرد بھرنا (۱۔ محاورہ) ٹھنڈے سانس بھرنا۔ اوپر کے سانس لینا۔

آہ سرد کرنا۔ دیکھنے سے آہ بھرنا۔

آہ سویراں (ف۔ مٹ) (۱۔ مٹ) آہ گرم۔ جلانے والی آہ۔ آگ لگا دینے والی آہ۔

رہ آہ جو آگ کا کام کرے۔

آہ شب (ف۔ مٹ) (۱۔ مٹ) وہ آہ جو مظلوم کے دل سے رات کو نکلے۔

آہ صد آہ (ف۔ مٹ) (۱۰ مٹ) سینکڑوں آمیں۔ (انسوس صد انسوس

آہ کا معرہ (۱۔ محاورہ) زور سے آہ کرنا۔ آہ کہینچنا۔

آہ کر کے رہ جانا (۱۔ محاورہ) یکجہ نغمہ کے رہ جانا۔ کسی صدمہ پر صبر کرنا۔

آہ کرنا۔ آہ کہینچنا (۱۔ محاورہ) کراہنا۔ نالہ و فریاد کرنا

آہ لکنا۔ آہ پڑنا۔

آہ پٹنا (۱۔ محاورہ) کسی کا صبر لینا۔ کسی کو شکار اس کی آہ سننا۔ بد دعا لینا۔

آہ نکلنا (۱۔ محاورہ) ہائے نکلنا۔

آہ نہ آئے (۱۔ محاورہ) درد نہ آئے۔ ذرا افسوس نہ آئے۔ ذرا رحم نہ آئے۔

آہ بھر شنب (ف۔ مٹ) (۱۔ مٹ) آدھی رات کو کی جانے والی فریاد۔

آہ نیم کلش (ف۔ مٹ) (۱۔ مٹ) وہ آہ جو پوری نہ ہو۔ آدھی کھینچی ہوئی آہ۔

آہ و بکا، آہ و فغاں، آہ و زاری (ف۔ مٹ) (۱۔ مٹ) آرونا۔ پینانا۔ او بیل کرنا۔

ہائے وائے۔ نالہ و فریاد۔

آہا (کلمہ تحسین) تعجب اور خوشی کا کلمہ۔

آہار (آء۔ ہار) (ن) (۱۔ مذ) [۱۱] امانڈی۔ لیٹی۔ کلف (۲۱) غذا۔ کھانا۔

آہار کرنا (مض مرکب) [۱۱] کھانا۔ بھوجن کرنا (۲۱) کلف دینا۔ ماوا چڑھانا۔

آہار و ہار۔ کھانا پینا۔ سونا۔ رہن سہن۔

آہٹ (آء۔ ہٹ) (۱۔ مٹ) [۱۱] پاؤں کی آواز۔ کھٹکا۔

آہٹ پانا (۱۔ محاورہ) چلنے کی آواز سن لینا۔ کھٹکا محسوس کر لینا۔

آہٹ پر کان ہونا (۱۔ محاورہ) پاؤں کی آواز کا منتظر ہونا۔

آہٹ لینا (۱۔ محاورہ) آواز پر کان رکھنا۔ کھر کھر کے پردھیان رکھنا ہوشیار ہونا

آہٹ ہونا (۱۔ مض) کھر کھا ہونا۔ کھٹکا ہونا۔

آہرن (آء۔ رن) (۱۔ مذ) سندان۔ نہانی جس پر لوہا لویا پٹتے ہیں۔

آہنگی (آء۔ ہس۔ ت۔ گی) (ن) (۱۔ مٹ) [دھیما پین۔ نرمی۔ سہولت۔ آسانی

آہستہ (آء۔ ہس۔ تہ) (ن) (۱۔ مٹ) [دھیما۔ نرم۔ نرمی۔ سچ سے۔ ملائمت سے۔

آہستہ آہستہ (تابع فعل) ہولے ہولے۔ دھیرے دھیرے۔ رفتہ رفتہ۔

آہک (آء۔ ہک) (ن) (۱۔ مذ) چونا۔ قلعی۔

آہن (آء۔ ہن) (ن) (۱۔ مذ) لوہا۔

آہن ربا (ف۔ مٹ) (۱۔ مذ) جگ پتھر۔ مٹا طیس۔

آہنگر (ف۔ مٹ) (۱۔ فاعل) لوہار۔ لوہے کا کام کرنے والا۔ جمع آہن گران۔

آہنگری (ف۔ مٹ) (۱۔ مٹ) لوہار کا پیشہ۔

آہنی (آء۔ ہنیس) (آء۔ نی، آء۔ ہنی) (ن) (۱۔ مٹ) صفت لوہے کی۔ لوہے کی

بنی ہوئی۔

آہنیں جگر (ف۔ مٹ) (۱۔ مٹ) لوہے کے جگر والا۔ دلیر۔ ہمار۔

آہنی کارخانے (۱۔ مذ) وہ کارخانے جہاں لوہے کا کام کیا جاتا ہے۔

آہنگ (آء۔ ہنگ) (ن) (۱۔ مذ) [۱۱] منغر۔ زمر۔ آواز (۲۱) قصد۔ ارادہ

(۳۱) دقت۔

آہو (آء۔ ہو) (ن) (۱۔ مذ) [۱۱] ہرن۔ مرگ (۲۱) عیب۔ نقص۔

آہو ہرن (ف۔ مٹ) (۱۔ مذ) ہرن کا بچہ

آہو چتر (ف۔ مٹ) (۱۔ مٹ) ہرن جیسی آنکھ والا مرگ۔ نیم خوبصورت آنکھوں

والا۔ معلق۔

آہو گیر (ف۔ مٹ) (۱۱) عیب جو (۲۱) ہرن کا شکار کرنے والا۔

آہو نئے حرم (ف۔ مٹ) (۱۱) مگر معطر کی ایک مقررہ حد میں رہنے والا۔

ہرن جہاں شکار ممنوع ہے (۲۱) [کناٹا] معلق۔

آہوئے خٹا (ف۔ مٹ) (۱۔ مذ) مقام خٹا کا ہرن جو منٹک کے لیے مشہور ہے۔

آہوئے زریں (آء۔ ہوئے) (ف۔ مٹ) (۱۔ مذ) سنہرا ہرن۔ آسمان کا ہرن۔

کناٹا (سورج۔ آفتاب)۔

آؤٹ (Out) (آؤٹ) [انگ مصف] باہر خارج (۲) ظاہر۔ افشا۔ شائع
 آؤٹ ڈور (Out Door) بیرونی۔ خارجی۔ گھر کی چار دیواری سے
 باہر کا۔ کھلی ہوا کا۔

آئی (آئی) [ای۔ او۔ اے۔] [مٹ] (۱۱) موت۔ نقضا۔ آئی ہوئی چیز (۲) آنا مصدر
 سے ماضی [مٹ] کا صغیر
 آئی بات کارو کنا ذہن گند کرنا ہے (۱) [مٹ] بات منہ پر آکر اسے
 روکنا ذہن کو خراب کرنے کے برابر ہے۔

آئی بلا ملنا (۱) محاورہ) مصیبت دور ہوجانا۔
 آئی بلا ملنا (۱) محاورہ) آت کو دور کرنا۔
 آئی پرنہ چونے (۱) [مٹ] جس بات کا عمل ہوئے مگر گزروے۔ یا کہ ڈالے۔
 آئی پرنہ نہیں چوکتے ہیں (۱) [مٹ] موقع ملنے پر خاموش نہیں رہتے۔
 آئی تو رمانی نہیں تو خالی چار پائی (۱) [مٹ] روزی ملی تو کام میں ہے
 ورنہ غیر سلا۔

آئی تو روزی نہیں تو روزہ (۱) [مٹ] ملا تو کھایا نہیں تو فاقہ سے ٹپے ہے۔
 آئی تو خوش نہیں تو خاموش (۱) [مٹ] روٹی ملی تو ہنر ورنہ کچھ نہیں۔
 آئی کھٹی آگ کو رہ کھی رات کو (۱) [مٹ] اے جیسا عورت کو کہتے ہیں۔
 کہ اسے بچپنی کے لئے ذرا ساجھہ کافی ہوتا ہے۔
 آئی بل جانا (۱) محاورہ) آت کا آکر دور ہوجانا۔
 آئی ٹلے بسر ساسوں جیسے (۱) [مٹ] مصیبت ٹل جائے تو آدمی بہت دیر
 تک زندہ رہتا ہے۔

آئی عقل جانا (۱) محاورہ) بدحواس ہوجانا۔ ہوش جلنے رہنا۔
 آئی کسی میرے ملتے (۱) [مٹ] سارا الزام میرے ہی سر ہو گیا۔
 آئی سونچ ڈھیری، دی چھوٹی بڑی پھوک (۱) [مٹ] ایسے پروا اور آزاد
 منش کا اپنی چیز ضائع کر دینا۔
 آئی نہ کھی، کون؟ تاکتے ہن (۱) [مٹ] جان نہ پہچان بڑی خالد سلام۔
 زبردستی واقفیت نکالنا۔

آئی ہوئی بل جانا (۱) محاورہ) موت یا مصیبت آنے آنے دور ہوجانا۔
 آئی ہوئی نہیں طلعتی (۱) [مٹ] آپنے والی موت یا مصیبت آکر رہتی ہے۔
 آئی سے جان کے ساتھ جانے کی جنانے کے ساتھ (۱) [مٹ] پیدائشی
 عادت مرتے دم تک ساتھ رہتی ہے۔

آئی بی عاقد سب کاموں میں داخکہ (۱) [مٹ] ناواقف گدگام میں
 دخل دینے والی عورت۔ ہر کام میں خواہ مخواہ دخل دینے والی۔

آئے (آئے) [اے۔ او۔ اے۔] فعل ماضی [آئے] گئے
 آئے آسم جائے لبیدا (۱) [مٹ] کسی نہ کسی طرح مطلب حاصل
 ہونا چاہیئے۔

آئے ہائے کھاٹ کے پائے (۱) [مٹ] بے معنی باتیں (درست)
 آئیں باتیں شائیں۔

آئے بھی تو کیا آئے (۱) [مٹ] کسی کے ذرا سی دیر آکر جانے کو کہتے ہیں۔
 آئے پیر بھائے میر (۱) [مٹ] ابد لوگ نیکوں کے سامنے نہیں ٹھہر سکتے۔

آہوئے (مشلی) مشکیں (ف۔ ا۔) [مٹ] مشک کے نانے والا ہرن۔
 آہے (آہے) [آہ۔ ا۔] [مٹ] آہ ہے۔

۱-۶

آئیڈیا (Idea) آئے۔ ڈیا) [انگ۔ ا۔] مذہبی خیال۔ تصور۔ فکر۔
 آئرش (Irish) (آہ۔ ریش) [انگ۔ صف] (۱۱) آئر لینڈ کا (۲)
 آئر لینڈ کا باشندہ (۳) آئر لینڈ کی زبان۔

آئرش فری اسٹیٹ (Irish Free State) آئر لینڈ کا آزاد حصہ۔
 آئل (Oil) (آئل) [انگ۔ ا۔] مذہب تیل۔ روغن۔
 آئل پیپر (Oil Paper) روغنی کا غذ جو پینٹنگ وغیرہ میں استعمال
 ہوتا ہے۔

آئل پینٹنگ (Oil Painting) (۱) روغنی رنگوں کی مصوری (۲)
 روغنی تصویر۔

آئل کلا تھ (Oil Cloth) روغنی کپڑا۔ موم جامہ۔
 آئل کولر (Oil Colour) روغنی رنگ جو پینٹنگ میں کام آتا ہے۔
 آئینتی یا متنی (آئی۔ ان۔ تی، پائی۔ ان۔ تی) [مٹ] [اے۔ او۔ اے۔] سرمانے اور
 پاؤں کے نیچے کی جگہ۔

آئندہ (آئی۔ ان۔ وہ) [ف۔ صف] (۱) آنے والا (۲) دوسری بار۔ پھر۔
 آگے۔ پھر کبھی۔ اب۔
 آئندہ اختیار بدست مختار (ف۔ مٹ) مانو نہ مانو جو چاہو کرو۔ مختار ہو۔
 نصیحت کرنے کے بعد کہا جاتا ہے۔

آئندہ کو کان ہو گئے (۱) [مٹ] آئندہ کے لیے احتیاط ہو گئی۔
 آئندہ کو کیا ہوتا ہے (۱) [مٹ] مقررہ آگے کیا ہونے والا ہے۔
 آئندہ ورنہ۔ آنا جانا۔ آنے جانے والا۔

آؤ (آؤ) [اؤ۔ او۔ اے۔] (۱) پیار اور محبت سے بلانے کا طریقہ (۲) آنا مصدر
 سے جمع امر حاضر۔

آؤ اور۔ تعظیم و تکریم۔ آؤ بھگت۔ خاطر و تواضع۔
 آؤ بھگت (۱) [مٹ] خاطر داری خاطر تواضع۔ خیر مقدم
 آؤ بھگت کرنا (۱) محاورہ) تواضع کرنا۔ خاطر مدارت کرنا۔

آؤ پڑوسن گھر کا بھی لے جاؤ (۱) [مٹ] کسی نفع کی امید پر اپنی گروہ سے
 بھی کچھ کھو بیٹھنے کے موقع پر غور نہیں ہوتی ہیں۔
 آؤ پڑوسن لڑیں (۱) [مٹ] دیکھیے آؤ پڑوسن لڑیں۔
 آؤ تار (۱) [مٹ] رنگ۔ ڈھنگ۔

آؤ تو جاؤ کہاں (۱) [مٹ] کسی کے بگڑنے کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں
 آؤ جانے دو۔ چلوڑائی دور کرو۔ بخشو۔ چھوڑو۔ غصہ تھوگ دو۔
 آؤ جاؤ (۱) [مٹ] چلت پھرت (۲) آمد و رفت آنا جانا۔

آؤ جاؤ کھنہارا کھانا مانگے دشمن ہمارا (۱) [مٹ] کجخوس آدمی جو کھانا
 نہ دے اور زبانی آؤ بھگت کرے۔
 آؤ دیکھا نہ تار (۱) [مٹ] بغیر سمجھے بوجھے کام کرنا۔

آیا سمجھو (جانو) ۱۱۔ محاورہ) ابھی آیا۔ آیا کر آیا۔ دیر نہیں کروں گا۔
آیا کتا کھا گیا تو بکھی ڈھول بجا ۱۱۔ مثل) بے ٹکرا در غافل عورت
کے متعلق کہتے ہیں۔

آیاگری ۱۱۔ مثل) آیا کا پیشہ۔ دانی پنا۔

آیا گیا ۱۱۔ مذ) آنے جلنے والا۔ ۲۱۔ مہمان۔ مسافر۔ ۳۱۔ بھولا۔ بسرا۔

آیا گیا ہونا ۱۱۔ محاورہ) بھول جانا۔ فراموش ہو جانا۔

آیات (آیات) ۱۰۔ ع۔ ۱۰۔ مثل) آیت کی جمع (۲) اوقات۔ قرآن میں
سے ایک وقفے کا نام جو اترے کی شکل کا ہوتا ہے۔ (۳) نشانیاں۔

آیاتِ مکتوبات (ع۔ مثل) قرآن کی وہ آیتیں جن کے معنی صاف
اور واضح نہ ہو۔

آیاتِ محکمات (ع۔ مثل) وہ قرآنی آیات جن میں تاویل کی ضرورت نہیں۔

آیت (آ۔ یت) ۱۰۔ ع۔ ۱۰۔ مثل) [۱۱] نشان (۲) نقرہ قرآن یا قریت یا
انجیل (۳) حجت ظاہری۔

آیت آنا۔ آسمان سے آیت نازل ہونا۔

آیت اترنا ۱۱۔ محاورہ) آیت نازل ہونا۔

آیت سجدہ۔ قرآن پاک کی وہ آیت جسے پڑھنے اور سننے سے سجد کرنا
لازم ہو جاتا ہے۔

آیت لا (ا۔ مثل) وہ آیت جس پر لاکھا ہوتا ہے۔ قاریوں نے ایسی آیت پر

نہ ٹھہرنا بہتر خیال کیا ہے۔

آیت مطلق (ع۔ مثل) وہ آیت جس پر قطعی ٹھہرنا پڑے جس کے آگے کول
دا ترے کے سوا کوئی علامت نہ ہو۔

آیت الکرسی (ع۔ مثل) قرآن مجید کی سب سے لمبی آیت سورہ البقرہ
پارہ تمسیر۔

آیت نازل ہونا۔ خدا کی طرف سے اس کے رسول پر آیت آنا۔

آیت وحدیث ہے ۱۱۔ مثل) قرآن پاک کی آیت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم کا ارشاد (۲) وہ بات جس میں شک کی گنجائش نہ ہو۔ بالکل حق۔

ایوڈو فارم (Iodoform) (آ۔ یو۔ ڈو۔ فارم) [انگ۔ ۱۰۔ مثل) اندر

رنگ کی ایک بدبودار مرکب جو زخم پر چھڑکی جاتی ہے۔

ایوڈین (Iodine) (آ۔ یو۔ ڈین) [انگ۔ ۱۰۔ مثل) ایک کیمیادی

غنہ جو دواؤں میں استعمال کیا جاتا ہے۔

ایورویڈک (۱۰۔ ۵۔ مثل) ہندی طریقہ علاج۔

آیہ (آ۔ یہ) [ع۔ ۱۰۔ مثل) آیت۔

آیہ رحمت۔ قرآن مجید کی وہ آیت جس میں خدا کی رحمتوں کا ذکر ہے۔

ا ب

اَب - [ع-ا-ب] باپ - والد - جمع : آباء۔

جمع : آباؤ

اَب و جَد - باپ و دادا - خاندان کے بزرگ پرکھے۔ جمع : آباؤ اجداد
جمع : آباؤ اجداد۔

اَب - [ہ] [ا] اس وقت - اس گھڑی - آج کل (۲) اس م - اس ماہ میں
(۳) اسی وقت - فوراً چھٹ بیٹ (۴) آئندہ - آگے کو - پھر - پھر بھی (۵)
فقوڑی دیر پیلے (۶) اس حالت میں - اس مرحلے پر (۷) اس وقت - تب -
اب آئے - ابھی آتے ہیں - ذرا سی دیر میں آنے والے ہیں۔

اب اب کر کے - تھوڑے دنوں سے چند روز سے - حال میں -
اب اب کرنا (معاورہ) مثال مثول کرنا - وعدہ خدائی کرنا - آج کل کرنا -
اب ادھر یا اُدھر - (معاورہ) اب نصیب ہو جانا چاہئے بات کو ختم کرنا چاہئے
اب ایسا ہی اللہ ہے - سب سہلے ٹوٹ گئے - اب کوئی امید نہیں -
اب ایسا بھی کیا - یہ بات نہیں ہو سکتی - یہ ناممکن ہے -

اب بتاؤ (بتائیے) اب بولو - اب کہو - (معاورہ) (قابل کرنے کے لیے)
اب کوئی راہ نہیں - مان جاؤ - اب کیا کریں (۲) حیرت و بے چارگی
کے اظہار کے لیے) اب کیا کیا جائے - کوئی چارہ نہیں رہا -

اب بھی (۱) اس وقت بھی - اس حال یا اس صورت میں بھی (۲) نس پر بھی
پھر بھی - تاہم -

اب بھی پھر نہیں گیا - (معاورہ) اب بھی وقت ہے - اس وقت بھی اصلاح
و درستی ہو سکتی ہے -

اب بھی میرا مردہ تیرے زندہ پر بھاری ہے [مثل] باوجود گوی گزری
حالت کے میں تم سے طاقتور ہوں - تمہارا مقابلہ کر سکتا ہوں -

اب پھٹتے کیا ہوتے جب چڑیاں جگ گئیں کھیت [مثل] موقع
ہاتھ سے نکل گیا تو پھٹتے تھے کیا حاصل - نقصان ہو جانے کے
بعد پشیمان ہونے کا کیا فائدہ -

اب تب - جلد بہانہ مثال مثول - اس وقت - اس وقت - بہت جلد -

اب تب لگنا (ہونا) مرنے کا وقت قریب آنا - جان بلب ہونا -

اب تک - اب تک - اس گھڑی تک - اس وقت تک - ابھی
تک - ہنوز -

اب تو - (۱) اس کے بعد آئندہ - (۲) ان حالات میں - اس صورت میں
(۳) آج کل - اس وقت - اس دفعہ (۴) آخر کار - بدجہ مجبوری -

اب جا کے (جا کر) اتنے دن پیچھے بہت دیر بعد -

اب جب میں - آن کی ان میں - کوئی دن میں - امروز و فردا میں - بہت جلد -

اب رنگ لائی گلہری [مثل] اب اصل حقیقت ظاہر ہوئی - اب
کزنوت ظاہر ہوئے -

اب سے - اس وقت سے - آئندہ سے -

اب ستونتی ہو کر مٹی ٹھیک ٹھیک لوٹ کھایا مسنار [مثل] تمام دنیا کو لوٹ کر
پرہیز گار بن جانا - نوسو چوہے کھا کے مٹی کھ کھلی -

اب سے آگے گھر سے آئے - [مثل] جو کچھ نا دانستی میں کر چکے
وہ کر چکے - اب ایسا کر س گئے - تو یہ ہے -

اب سے دور (دور پار) خدانہ کرے - خدا پھر ایسا موقع نہ دکھائے -

اب کا - اس وقت کا - اس زمانے کا - موجودہ حال کا - اس مرتبہ کا -

اب کہاں جانا ہے - قابو میں آجائے پرکتے ہیں - پکڑ لیا ہے -
جانے نہیں پاتے گا -

اب کھاتی تو کھاتی - اب کھاؤں تو راہ دہانی [مثل] اب جو کچھ
ہوا سو ہوا - آئندہ ایسا نہیں ہوگا - اس واقعہ کوک ہوگئی - آئندہ نہ ہوگی -

اب کی بات اب کے ساتھ جب کی بات جب کے ساتھ - [مثل]
پیسے جو پھر تھا - وہ گزر گیا - اب جو رنگ زمانے کا ہے - اس کے ملحق
کرنا چاہئے -

اب کی نیچے تو گھر گھر بنے - [مثل] قمار بازوں کی اصطلاح میں جب
چوسری کوٹ زد میں ہوتی ہے اور دوسرے شخص کے ہاتھ میں پانسہ

جاتا ہے تو کہتے ہیں - اب کی منبر زج جائے تو پھر ہر خانے میں جانے لگی
کوئی مزاحمت نہ کر سکے - جی ہو جائے -

اب کے - اس دفعہ - اس مرتبہ - آئندہ زمانہ میں - 'اب کا' کی جمع -

اب کیا پوچھنا ہے (معاورہ) اب نہ سے ہیں - اب پوری آزادی ہے -

اب کیا تھا - دیر ہی کیا تھی - ذرا -

اب کیا ہوتا ہے - وقت اور نکل گیا - اب کوئی چارہ کار نہیں -

اب نہ تپ - نہ اس وقت - نہ کبھی - کبھی نہیں -

اب وہ پانی ملتا نہ رہ گیا - جب کوئی موقع ہاتھ سے جانا ہے یا کسی کام
کا وقت گزر جانے کو یہ کہتے ہیں - موقع جا چکا ہے -

اَب - [ع-ا-ب] سبزہ - گھاس -

اَبَا - (ا-با) [ع-ا-ب] باپ

اَبَا عن جَد - باپ و دادا سے - تدریم سے -

اَبَا (اب - با) [ا-ب] باپ - جیم دینے والا - خاندان کے بزرگ (۲)
تعمیم کے لیے جسے چچا ابا - خالو ابا -

اَبَا جان - اَبَا جانی - اَبَا جی - اَبَا حضور - اَبَا میاں - بچے اپنے باپ کو
ان لفظوں سے پکارتے ہیں -

اَبَا - (ا-با) [ع-ا-ب] [مثل] انکار - نفرت - پرہیز - اختلاف - نافرمانی -

اَبَا کرنا - انکار کرنا -

اَبَا بیل - (ا-با - بیل) [ع-ا-ب] [مثل] ایک چھوٹا سا سیاہ رنگ کا بزندہ جن کا
سینہ سفید ہوتا ہے - اندھیری جھکوں پر ہوتی ہے -

اَبَا بیلیا - (ا-با - بیل - یا) [ا-ب] [مثل] اَبَا بیل سے ملتا جلتا ایک قسم کا بگوتہ

جس کا رنگ ایابیل سے مشابہ ہے۔

اباحت (۱-باحث) [ع-۱-مشت] اجازت۔ جائز کرنا۔ جواز۔ مباح ہونا۔ شروع میں جائز ہونا۔

اباحتی (۱-باحث) [ع-۱-مشت] حرام کو مباح اور جائز سمجھنے والا۔

اباحتی (۱-باحث) [ع-۱-مشت] حرام کو مباح اور جائز سمجھنے والا۔

اباحتی (۱-باحث) [ع-۱-مشت] حرام کو مباح اور جائز سمجھنے والا۔

اباحتی (۱-باحث) [ع-۱-مشت] حرام کو مباح اور جائز سمجھنے والا۔

اباحتی (۱-باحث) [ع-۱-مشت] حرام کو مباح اور جائز سمجھنے والا۔

اباحتی (۱-باحث) [ع-۱-مشت] حرام کو مباح اور جائز سمجھنے والا۔

اباحتی (۱-باحث) [ع-۱-مشت] حرام کو مباح اور جائز سمجھنے والا۔

اباحتی (۱-باحث) [ع-۱-مشت] حرام کو مباح اور جائز سمجھنے والا۔

اباحتی (۱-باحث) [ع-۱-مشت] حرام کو مباح اور جائز سمجھنے والا۔

اباحتی (۱-باحث) [ع-۱-مشت] حرام کو مباح اور جائز سمجھنے والا۔

اباحتی (۱-باحث) [ع-۱-مشت] حرام کو مباح اور جائز سمجھنے والا۔

اباحتی (۱-باحث) [ع-۱-مشت] حرام کو مباح اور جائز سمجھنے والا۔

اباحتی (۱-باحث) [ع-۱-مشت] حرام کو مباح اور جائز سمجھنے والا۔

اباحتی (۱-باحث) [ع-۱-مشت] حرام کو مباح اور جائز سمجھنے والا۔

اباحتی (۱-باحث) [ع-۱-مشت] حرام کو مباح اور جائز سمجھنے والا۔

اباحتی (۱-باحث) [ع-۱-مشت] حرام کو مباح اور جائز سمجھنے والا۔

اباحتی (۱-باحث) [ع-۱-مشت] حرام کو مباح اور جائز سمجھنے والا۔

پہلے پہل۔ اول اول۔

ابتدائی (۱-ابتدائی) [ع-۱-مشت] (۱) شروع کا پہلا۔ سرسری۔

ابتدائی تعلیم۔ شروع کی تعلیم۔ پہلی پانچ جماعتوں کی تعلیم۔

ابتدائی رسوم۔ پہلا سرکاری حق۔ پہلا محنت۔ زمینداری کا حق۔ شکرانہ۔ نذرانہ۔ فیس کورٹ کا حق۔ شروع کی رسمیں۔

ابتدائی عدالت۔ ماتحت عدالت۔ پہلی پجری۔

ابتدائی مدارس۔ مدرسے جن میں شروع کی چار پانچ جماعتیں ہوتی ہیں۔

ابتدائی۔ وہ مضمون جو کسی کتاب کے شروع میں ہو۔ افتتاحیہ۔ مقدمہ۔

دیساج۔ شروع کا۔ آغاز کا۔

ابتدال (۱-ابتدال) [ع-۱-مشت] (۱) اخلاقی پستی۔ کمینہ پن۔

ابتدال (۱-ابتدال) [ع-۱-مشت] (۱) اخلاقی پستی۔ کمینہ پن۔

ابتدال (۱-ابتدال) [ع-۱-مشت] (۱) اخلاقی پستی۔ کمینہ پن۔

ابتدال (۱-ابتدال) [ع-۱-مشت] (۱) اخلاقی پستی۔ کمینہ پن۔

ابتدال (۱-ابتدال) [ع-۱-مشت] (۱) اخلاقی پستی۔ کمینہ پن۔

ابتدال (۱-ابتدال) [ع-۱-مشت] (۱) اخلاقی پستی۔ کمینہ پن۔

ابتدال (۱-ابتدال) [ع-۱-مشت] (۱) اخلاقی پستی۔ کمینہ پن۔

ابتدال (۱-ابتدال) [ع-۱-مشت] (۱) اخلاقی پستی۔ کمینہ پن۔

ابتدال (۱-ابتدال) [ع-۱-مشت] (۱) اخلاقی پستی۔ کمینہ پن۔

ابتدال (۱-ابتدال) [ع-۱-مشت] (۱) اخلاقی پستی۔ کمینہ پن۔

ابتدال (۱-ابتدال) [ع-۱-مشت] (۱) اخلاقی پستی۔ کمینہ پن۔

س	ع	ف	ص	ق	ر	ش	ت	ث	ذ
۶۰	۷۰	۸۰	۹۰	۱۰۰	۲۰۰	۳۰۰	۴۰۰	۵۰۰	۶۰۰
ص ن ط ح									

۱۰۰۰ ۹۰۰ ۸۰۰

ابجاء (آب - حار) [ع-۱-اند] بحر کی جمع بہت سے سمندر۔
 ابجرات (آب - بخ - رات) [ع-۱-اند] ابجرہ کی جمع بجارات بھاپیں۔
 ابجرہ (آب - بخ - رہ) [ع-۱-اند] بجارہ بحر کی جمع بجارات بھاپیں۔
 ڈھونہیں جمع ابجرات۔
 ابجرے اٹھنا بھاپیں اٹھنا ڈھواں اٹھنا۔
 ابجرے چڑھنا بھاپ کا اوبر چڑھنا ڈھواں اوبر اٹھنا۔
 ابجرے دماغ کو چڑھنا دماغ میں گرمی کا اثر کرنا سودائی ہو جانا۔
 ابجل (آب - جل) [ع-صفت] بہت بھیل نہایت کھوس - ہمایچر۔
 ابد (آ- بد) [ع-۱-امت] ہمیشگی - وہ زمانہ جس کی انتہا نہ ہو۔
 ابدال الابد ہمیشہ دوام۔
 ابداء (آ- ب- دن) [ع] ہمیشہ کے لیے - ابد تک - قطعاً۔
 ابداء (آب- دا) [ع-۱-اند] پیدا کرنا - وجود میں لانا - ظاہر کرنا۔
 ابداء ابد (آ- ب- دا- آ- بد) [ع] ہمیشہ ہمیشہ - قیامت تک۔
 ابداء (آب- دا- ع) [ع-۱-امت] اختراع - ایجاد - نئی چیز نکالنا۔
 ابدال (آب- دال) [ع-۱-اند] (۱) اہل تصوف کے نزدیک اولیاء اللہ کا وہ گروہ جس کے پیر و دنیا کا انتظام ہے۔ اولیاء اللہ کے دس طبقات میں سے پانچواں طبقہ (۲) افغانوں کے ایک جگے کا موثر اعلیٰ۔
 ابدالی (آب- ڈا- لی) [ف-۱-اند] افغانوں کے ایک قبیلے سے منسوب۔
 ابدان (آب- دان) [ع-۱-اند] بدن کی جمع بہت سے جسم۔
 ابدھوت (آب- ڈھوت) [ع-۱-اند] سدھ جوگی ہندو نظیروں کا ایک گروہ جو واجب الوجود کے سوا کسی کو نہیں مانتا اور نہ کسی خاص ذات کے لئے خدا کی پرستش کرتا ہے۔
 ابدی (آ- ب- دی) [ع-صفت] دائمی - جاودانی - غیر خانی - سرمدی۔
 ابدیت (آب- دی- یت) [ع-۱-امت] ہمیشگی - نقل سے دوام۔
 ابد (ف-۱-اند) (۱) بادل - گھٹا - بدلی (۲) جو ہر شے اور وہ نشان جو اچھا یا بد وغیرہ پر نصاب کے ذریعہ ڈالتے ہیں۔
 ابراگھٹنا بادل آنا - آسمان پر بادل چھانا۔
 ابراخری (آ- ف- اند) بادل کا بادل جو برسات کم ہے اور گر جتا زیادہ ہے۔
 ابراہاں (ف- اند) برستے والا بادل۔
 ابر بہار - موسم بہار کا بادل۔
 ابر بہمن - شمسی عقیقہ بہمن کا بادل۔
 ابر پھینا - بادلوں کا ٹکڑے ہو کر منتشر ہو جانا۔
 ابر تصور - کاغذ پر ابر کی شکل۔
 ابر تنک - ہلکا سا ابر۔
 ابر تیرہ - کالی گھٹا - سیاہ بادل۔
 ابر تیغ - تلوار میں جوہروں کے مثل زرنکاری خطوط کا سلسلہ۔

ابر پھینا - ابر گھٹنا - گھٹا کا کھل جانا - مطلع صاف ہونا۔
 ابر دریا بار - بہت برستے والا بادل۔
 ابر رحمت - رحمت کا بادل - وہ بادل جس کی بارش سے مخلوق کا بھلا ہو۔
 ابر سہ تاب - کالی گھٹا۔
 ابر عقیظ - گھرا بادل - کالی گھٹا۔
 ابر قتلہ - وہ بادل جو بچھم کی طرف سے اٹھے۔
 ابر کا لکڑہ - ابر کا لکڑہ۔
 ابر کرم (۱) بخشش کا بادل (۲) بخشش کی طرح سخاوت - فیاض - سخی۔
 ابر کو کھڑے پھوڑنا [ش] موسم اُمید پر موجودہ چیز بھی کھڑے پھینا۔
 ابر کو ہسار - ابر کو ہساری۔ وہ بادل جو بہاؤ کی طرف سے اٹھے۔
 ابر کو ہر (گہر) مار - موٹی برس آنے والا بادل - ابر نیساں۔
 ابر گھٹنا - بادل کا اٹھنا۔ گھٹا چھانا۔
 ابر محیط - چاروں طرف چھایا ہوا بادل - ہر طرف پھیلے ہوئے گھٹا۔
 ابر مڑوہ - اسفنج یا اسفنج۔
 ابر نیساں - شمسی چینی نیساں میں (جو کہ ستمبر کے مطابق ہوتا ہے) اپنے والا بادل مشو سے کہ اس سے سی پی میں مونی کیلے میں کافرہ بانس میں منسوج اور سانپ میں زہر بنتا ہے۔
 ابر و باد - آندھی اور پانی۔
 ابرا - ابراہ - (آب - را - آب - رہ) [ف-۱-اند] دو برسے کڑے کی ادبیری برت۔
 ابراہ (آب - ہار) [ع-۱-اند] برکی جمع - نیوکا - برہنہ کار نوک - اونٹیا - انٹہ۔
 ابراہم - (آب - رام) [ع-۱-اند] شک کرنا - طویل کرنا - بچھینا - اتھاس بکھینا۔
 کسی کام کا مضبوط کرنا۔
 ابرش - (ع-صفت) بادل چکرا - سیاہ و سفید - ابلت - وہ گھوڑا جس میں سُرخ اور سفید رنگ ہوں۔
 ابر رض - (آب - رض) [ع-۱-صفت] سفید کوڑھ کا بیماری - کوڑھی۔
 ابرق - ابرک - (آب - برق) [آب - رک] [پہلا عربی - دوسرا ہندی - امت] ایک قسم کی چمکیلے دھات۔
 ابراہن - ابراہمن - (آب - رن) [آب - رہن] [ع-۱-اند] گنا۔
 ابراہن - لباس۔
 ابراہو - (آب - رو) [ف-۱-امت] آنکھوں کے اوپر والے ہلالی شکل کے بال - بھولے پر جمع - ابراواں۔
 ابرو پرل ٹرانا - ابرو ٹرک آنا (ٹرانا) (معاورہ) خضا ہونا - تیوری چڑھانا۔
 ابرو پرل ٹرانا - ڈانچھی صدرتے کا اثر نہ ہونا - کوئی افسوس نہ ہونا۔
 ابرو تانا - غصے میں بھنوں اوبر چڑھانا۔
 ابرو کمان - وہ شخص جس کے ابرو کمان کی طرح ہوں - خوبصورت عورت۔
 ابرو کھینچ جانا - بھنوں تن جانا - غصہ ہونا۔
 ابرو کے خم گھٹنا - غصہ اتر جانا۔
 ابرو میں سین آنا - ابرو میں مل آنا۔
 ابرو ہلانا - ابرو کو جنبش دینا - ابرو سے اشارہ کرنا۔
 ابرو سے پیوستہ - وہ بھنوں جو ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہوں۔

اُبڑے فلک - بلال - پہلی رات کا چاند۔

اُبڑہ - (ع - مذ) یمن کا حبشی گورنر جس نے چھٹی صدی عیسوی کے نصف اول میں باقبولوں سے خانہ کعبہ پر حملہ کیا تھا۔ کن اباہیوں کے کنکر بھینکنے سے اس کی ساری فوج ختم ہو گئی۔ یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے کچھ عرصہ پہلے ہوا۔

اُبڑی - (اُب - ری) [ف - ۱ - مٹ] ایک قسم کا رنگدار کاغذ جس پر ابر سے نشان بنے ہوتے ہیں اور اسے کتابوں کی جلدوں پر لگاتے ہیں۔

اُبڑی تلوار - تلوار جس میں ابر کی صورت کے جوہر ہوں۔

اُبڑیشم - (اُب - ری شیم) [ف - ۱ - مذ] کچا ریشم۔

اُبڑیشینہ - (اُب - ری شیم - می - مذ) [ف - صفت] ریشم کی چیز۔

اُبڑی - (اُب - ری) [ع - ۱ - مذ] (۱) چھالک بھرا جی - پانی پینے کا ٹوا۔ پانی کا ایک ٹوٹی اور دستہ دار برتن (۲) چھلکی تلوار - جمع : ابا ریق۔

اُبسنّا - (اُب - س - نا) [ہ - میص] گنا مرٹا - کھانے کی چیزیں مرٹنے کے آثار پیدا ہوجانا۔ واسقے میں فرق آجانا۔

اُبصار - (اُب - صار) [ع - ۱ - مذ] بصر کی صبح - آنکھیں - نظریں

اُبصار - (اُب - صار) دیکھنا - نگاہ - بصیرت - دانائی۔

اُبطال - (اُب - طال) بطل کی جمع - بہادر لوگ - بڑے انسان - سیرود۔

اُببال - (اُب - طال) [ع - ۱ - مذ] باطل کرنا - جھوٹا کرنا - غلط قرار دینا۔

اُبغاو - (اُب - عاد) [ع - ۱ - مذ] بُد کی جمع - دُوریاں - فاصلے کسی چیز کی پہچان یا وزن کی حد یعنی لمبائی - چوڑائی - موٹائی - گہرائی - حجم - زنجیر وغیرہ۔

اُبغاو ثلاثہ - تین بُد یعنی لمبائی و چوڑائی اور گہرائی۔

اُبکار - (اُب - کار) [ع - ۱ - مٹ] جمع بکر کی - کنواری لڑکیاں - چھوٹے اور نادر مضامین۔

اُبکار - (اُب - کار) [ع - ۱ - مٹ] مہربانی - عنایت - نوبت - کرم - احسان

اُبکائی - (اُب - کا - ای) [ہ - ۱ - مٹ] تھکی - تکی - طبیعت کا مالش کرنا۔

اُبکائی آنا - منٹی ہونا - جی مالش کرنا - تھکنا۔

اُبکائی لگنا - بار بار تھکنا - آنا - منٹی ہونا۔

اُبکنا - (اُب - ک - نا) [ق - میص] اُبھرنا - اُبھنا - اُبڑنا - غوطہ کھا کر اُبڑنا۔

اُبل آنا - (اُب - بل - نا) [ہ - میص] کسی سیال چیز کا جو خش کھانا - جوش مارنا۔

(۲) سوچنا - آشوب ہوجانا۔

اُبل پڑنا - (مخادرہ) بُرا بھلا کھنا - خفا ہونا (۲) باہر نکل آنا (۳) بھڑپڑنا

ظاہر ہوجانا۔

اُبلا - (اُب - لا) [س - ۱ - مٹ] کمزور عورت - نازک عورت - کاسنی۔

اُبلا بری - نازک اندام - خوبصورت عورت۔

اُبلا بلی - (اُب - لا - بی لی) [ق - صفت] (۱) بہت طاقتور - نہایت فوری۔

(۲) دُشمنی یا دشواہ علی عادل شاہ کا لقب۔

اُبلاغ - (اُب - لاغ) [ع - ۱ - مذ] پہنچانا - بھیجنا (۲) تبلیغ - اشاعت

اُبلا پڑنا - چلنا - (ہ - میص) (۱) ہمت پھنپھنا ہونا (۲) کم ظرفی سے کچھ کہہ

بیٹھنا - اوچھے پن سے بھید نہ چھپا سکتا (۳) کثرت سے ہونا۔

(۴) کسی سیال شے کا اُبل جانا۔

اُبل جانا - (اُب - ل - جانا) [ہ - میص] جوش کھا جانا - جھلک پڑنا۔

اُبلق - (اُب - لق) [ع - صفت] (۱) دوزنگا چنگر - خصوصاً سیاہ و سفید۔

(۲) دوزنگا گھوڑا (۳) کوڑھی۔

اُبلق آیام - اُبلق بیل و نہار - رات دن۔

اُبلق چنتم - خوبصورت آنکھوں والا۔

اُبلق روزگار - رات دن۔

اُبلقا - اُبلقظہ - (اُب - ل - قا) (اُب - ل - قہ) [اُر - ۱ - مذ] مینا سے ملتا جلتا

ایک پرنس کے پر سیاہ اور پوٹا سفید ہوتا ہے۔

اُبلنا - (اُب - ل - نا) [ہ - میص] (۱) کھولنا - جوش کھانا - جوش کھا کر باہر نکل

آنا (۲) دولت یا اولاد پر مغرور ہونا - جھلک پڑنا - کناروں سے باہر

نکل جانا (۳) ظاہر ہونا عیاں ہونا (۴) کم ظرفی دکھانا (۵) غصہ میں

آنا (۶) سوچنا - چھوٹنا۔

اُبلكہ - (اُب - ل - ک) [ف - صفت] نادان - بیوقوف - احمق - جمع ابلہاں

اُبلفریب (صفت) دھوکا باز - مکار - بے وقوف کو دھوکا دینے والا۔

اُبلفریبی - ابلہ طرازی - دغا - مکر - عیاری (۲) ہلکانا - سبز باغ دکھانا

(۳) بے وقوف بنانا۔

اُبلمٹی - (اُب - ل - می) [ف - ۱ - مٹ] حماقت - سادگی - بیوقوفی - احمق پن۔

اُبلمیس - (اُب - لمیس) [ع - ۱ - مٹ] (۱) خُدا کی رحمت سے نا امید۔

(۲) شیطان (۳) حشمت - علیہ (۴) شر - سرکش - فساد - جھگڑا اور

اُبلمیس کا پیشاب - اُبلمیس کا جانشینان کا لفظ - بد ذات

اُبلمیسیت - (ع - مٹ - صفت) سرکشی - شیطنت - غنہ - انگریزی۔

اُبلم - (ع - ۱ - مذ) بیٹا - فرزند - پسر - پتر - جمع : اُبلمار

اُبلمار - (ع - ۱ - مذ) بھائی کا بیٹا - بھتیجا۔

اِبْنُ الْأَخْتِ - (اِب - ن - ل - اُخت) بہن کا بیٹا - بھانجا۔

اِبْنُ الْأَسْبَلِ - مسافر - راہی (فقد) جو شخص مال تو رکھتا ہو مگر اس پر بعض چیز

اِبْنُ الْأَوْقَتِ - زمانہ ساز - قابوچی - وہ شخص جو مقتضائے وقت کام کرتا ہو۔

اِبْنُ الْغَرَضِ - (اِب - ن - ل - غرض) غرض کا بندہ - مطلق۔

اِبْنُ مَریم - بی بی مریم کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام

اِبْنُ بُلعم - (ع - کینت) حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قاتل۔

اِبْنَاع - (اِب - ناع) [ع - ۱ - مذ] ابن کی جمع - بیٹے۔

اِبْنائے جنس - ہم جنس - ایک ہی جنس کے۔

اِبْنائے جہاں - اولادِ انسانی - اولادِ آدم جو ارضے انسان بھائی بھائی ہیں۔

اِبْنائے زمانہ - اِبْنائے وقت - زمانے کے لوگ - زمانہ ساز لوگ۔

اِبْنائے وطن - اِبْل وطن - دیس کے لوگ۔

اِبْنف - (اِب - ن - ف) [ع - مٹ] ایک مرض جس میں اِغلام کرنے کی خواہش ہوتی ہے

اِبْنیت (اِب - نیت) [ع - مٹ] بیٹا ہونا - فرزند - بیٹا ہونے کی

ابھی تم (بیچتے) صاحبزائے ہو۔ (جمادہ) ابھی تم نا تجربہ کار ہو۔ ابھی عقل نہیں آئی۔

ابھی چھٹی کا دودھ نہیں سوکھا۔ [لائشل] کسی کے لڑکپن۔ نادانی اور نا تجربہ کاری ظاہر کرنے پر کہتے ہیں۔ ابھی نادان بچے ہو۔

ابھی دلی دور ہے۔ [لائشل] ابھی مقصد پورا ہونا نظر نہیں آتا۔ ابھی بہت وقت پڑا ہے۔ اس مقام پر بولتے ہیں جہاں کسی بات کو بہت زمانہ باقی ہو۔ (بیز دیکھیے ہنوز دلی دور است)

ابھی دودھ کے دانت نہیں ٹوٹے [لائشل] ابھی بچے ہونا نا تجربہ کار ہو۔ ابھی دیکھا گیا ہے۔ (جمادہ) نا تجربہ کار ہیں۔ دُنیا کا تجربہ نہیں۔

ابھی سویرا ہے [لائشل] ابھی کچھ حرج نہیں ہوا ہے۔ ابھی کچھ نہیں گیا ہے۔ ابھی سے۔ (۱) اسی وقت سے (۲) پیشتر سے قبل از وقت (۳) اس عمر میں۔

ابھی میر میں سے پونی بھی نہیں گئی۔ [لائشل] ابھی کام شروع ہی ہوا ہے ابھی بہت غلط کام ہو رہا ہے۔ بہت کام باقی ہے۔

ابھی کچا برتن ہے۔ ابھی کچی لکڑی ہے۔ کس اور نا تجربہ کار ہے۔ ابھی تجربہ نہیں ہے۔

ابھی کچھ نہیں بگڑا ہے (گیا ہے) ابھی وقت ہے۔ اب بھی کچھ ہو سکتا ہے۔

ابھی کچے کھڑے پانی بھرا ہے [لائشل] ابھی بہت مشکل کام باقی ہے۔ ابھی کل کی بات ہے۔ تھوڑے زمانہ کا واقعہ ہے۔ تھوڑی مدت گزری۔

ابھی کیا ہے (جمادہ) ابھی کیا ہو گیا ہے۔ مماظرہ ختم نہیں ہو گیا۔ آئندہ اس سے زیادہ ہوگا۔

ابھی کے دن ٹہرے (جمادہ) ابھی وقت ہے۔ اب بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ ابھی منہ سے دودھ پینٹا ہے۔ [لائشل] ابھی لڑکپن ہے۔

ابھی منہ کی رال نہیں چھڑی۔ ابھی نا تجربہ کاری کا عالم ہے۔

ابھی ہونٹوں کا دودھ نہیں سوکھا۔ ابھی بالکل نیچے ہو۔ نادان اور نا کچھ ہو۔ ابھیاس۔ (س۔ مذ) کام کو بار بار کرنا (۲) روحانی ریاضت (۳) عادت یا مہارت پیدا کرنا۔

ابھی رہتی۔ (اب۔ بی۔ دب۔ بی) [۵-۱-مٹ] گلی ڈنڈا کھیلنے میں جب گلی کو اچھالتے ہیں اور ڈنڈے پر روکتے ہیں تو ضرب اول کو ابھی اور دوسری کو دہنی کہتے ہیں۔

ابھے (آ۔ بے) [د] ارے۔ او۔ اپنے سے بہت چھوٹی عمر یا کم دے والے کو مخاطب کرنے کا ایک طریقہ۔

ابھے تیسے کرنا۔ بدنہیزی سے پیش آنا۔ بیوقوفی کرنا۔ بازاری بول چال۔

آبیات۔ (آب۔ بات) [ع۔ ف۔ ۱-مذ]۔ بیت کی جمع۔ اشعار (۲) بہت سے گھر۔

آبیر۔ (آ۔ پیر) [۵-۱-مذ] ابڑک کا برادہ جو ہولی میں خوشی کے وقت ہندو آپس میں ایک دوسرے پر چھڑکتے ہیں۔

آبٹض۔ (آب۔ بیض) [ع۔ صف] [۱-مذ]۔ سفید۔

امام۔ (۴) حضرت آدم۔
ابوالانبیا۔ (ا۔ ب۔ ا۔ ن۔ با) [ع۔ کنیت] حضرت آدم علیہ السلام

ابوالبشر۔ انسان کا باب۔ حضرت آدم علیہ السلام۔
ابوالحسن۔ (ا۔ ب۔ ح۔ سن) [ع۔ کنیت] حضرت علیؓ کی کنیت

ابوالخیر۔ (ا۔ ب۔ خ۔ ن۔ ر) [ع۔ کنیت] مشہور فارسی شاعر ابو سعید ابوالخیر۔
ابوالقاسم۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت۔

ابوالہول۔ ایک خیالی جانور جس کا چہرہ مثل عورت کے اور جسم شیر کی مانند ہے۔
ابوبکر۔ مسلمانوں کے خلیفہ اول کی کنیت۔

ابوتراب۔ مٹی کا باب۔ حضرت علیؓ کی کنیت۔
ابوجہل۔ (ع۔ کنیت) ابوجہم عمر بن ہشام مخزومی کی کنیت۔ اسلام دشمنی کی بنا پر مسلمانوں نے اسے ابوجہل کہا شروع کیا۔

ابوصغیفہ۔ (ع۔ کنیت) امام اعظم حضرت تقی بن ثابت علیہ الرحمۃ کی کنیت۔
فقہ حنفیہ کے امام۔

ابوذر۔ (ع۔ کنیت) جناب بن محمد بن العفاری۔ مشہور صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت۔

ابوطالب۔ (ع۔ کنیت) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جنھوں نے حضورؐ کی پرورش کی حضرت علیؓ کے والد محترم۔

ابولہب۔ (ع۔ کنیت) حضورؐ کے چچا بکر اسلام کے بدترین دشمن۔
ابوعلی سینا۔ مشہور طبیب حسین بن عبد اللہ کی کنیت۔ کتاب شفا کا مصنف۔

ابواب۔ (آب۔ واب) [ع۔ ۱-مذ] (۱) باب کی جمع۔ کتاب کے حصے (۲) دروازے۔

ابھار۔ (ا۔ بھار) [۵-۱-مذ] (۱) اونچائی جو کسی چیز کے پھولنے یا ابھرنے سے ظاہر ہو۔ اٹھان۔ غمو (۲) ظہور (۳) بڑھنے کا عمل۔ پستان

ابھارنا۔ (ا۔ بھا۔ رنا) [۵-مض] (۱) اُکسانا۔ تحریک کرنا (۲) سہارا دینا۔ اونچائی اٹھانا۔ اونچائی کرنا (۳) بگالے جانا (۴) بہکانا۔ درغلانا (۵) نرانا۔ ڈوبنے کو سمجھانا (۶) فروغ دینا (۷) باہر کرنا۔ اوپر لانا۔

ابھاگ۔ (صف) بد قسمت۔ بد نصیب۔

ابھاگن۔ بد نصیب عورت۔

ابہام۔ (اب۔ ہام) [ع۔ ۱-مذ] (۱) اگھٹھا (۲) صاف میان نہ کرنا۔ گول بول بات کرنا (۳) ادب میں ایک صنف کا نام

ابھرن۔ (ابھ۔ رن) [ق] (۱) زبور (۲) لباس (۳) آرائش۔
ابھرتنا۔ (ا۔ بھرتنا) [۵-مض] (۱) اونچا ہونا۔ اوپر آنا (۲) پھوٹنا۔ پودا پھلنا (۳) جوان ہونا۔ قد نکالنا۔ بڑھنا (۴) ترنا غوط کھنا کر پھلنا (۵) چلتا بننا۔

دھونکر ہونا۔ چل دینا (۶) ظاہر ہونا (۷) اگھ ہونا۔ جیدا ہونا۔
ابھروان۔ (۵-صف) ابھرتا ہوا۔ ابھرا ہوا۔

ابھلاک۔ (ابھ۔ لاک) [ق۔ ۱-مذ] خواہش۔ آرزو (۲) فرض (۳) لذت۔ مزا

ابھمان۔ (ا۔ بھ۔ مان) [۵-۱-مذ] غرور۔ گھمنڈ۔ تکبر (۲) نموداری۔
ابھی۔ (ا۔ بھی) [۵] (۱) فی الحال (۲) فوراً۔ اس وقت (۳) تھوڑی دیر پہلے

(۴) فوراً دیر بعد (۵) اتنی جلدی (۶) ہنوز۔ اب تک۔
ابھی ابھی۔ اسی وقت۔ فوراً۔ اسی دم (۲) درو دیر پہلے۔

پ - پ

اپرنٹس (Apprentice) (آپ - رن - ٹس) [انگ - ۱ - مذ] ملازمت کا آمیدوار (۲) نوآموز (۳) بیزارت یا کم اجرت پر کام سیکھنے والا۔ آپریشن (Operation) (انگ - مذ) علاج کے لیے جسم کے کسی حصے کو کاٹنا۔ فاسدہ ہونے کے لیے چریھاڑ کرنا۔ عمل جراحی۔ اپریل (April) (آپ - ریل) [انگ - ۱ - مذ] انگریزی سال کا چوتھا مہینہ۔ اپریل فول (April Fool) پہلی اپریل کو دوسرے کو اخم بنانے کی رسم۔

آپا پت - (آپا پ) [ہ - صفت] بے گناہ معصوم
آپا دھی - (آپا - دھی) [ہ - صفت] عالم فساد یا انصاف۔
آپا دھیانی - (س - مذ) معلم - استاد (۲) دیدوں کا پڑھنے والا (۳) برہمنوں کی ایک قسم۔

آپار - (اس صفت) ناقابل عبور (۲) بہت زیادہ بے حد شمار
آپاڑ - (آپاڑ) [ہ - ۱ - مذ] (۱) تیز دوادغیرہ سے بدن کی کھال اڑنا (۲) ابلہ پڑنا (۳) اکھاڑنا - ادھیڑنا۔

آپاڑنا - (آپاڑنا) [ہ - مص] اکھاڑنا۔ زمین سے درخت یا پودا الگ کرنا۔ درختوں کو نوچنا کھسوتنا (۳) بگاڑنا - (۳) کا جل وغیرہ کا تیار کرنا۔

آپالو - (Apollo) (آپا - لو) [یو - ۱ - مذ] یونانی دیوی مالاہیں روشنی جوانی - موسیقی اور روانہ حسن کا دیوتا

آپانج - (آپا - بچ) [ہ - صفت] (۱) ٹولا لنگڑا - بچا۔ چلنے پھرنے سے مزدور (۲) سست - بچا - ناکارہ۔

آپائنٹ منٹ - (Appointment) (آپا - بٹ منٹ) [انگ - ۱ - مذ] تقرر - تعین۔

آپاسے - (آپا - سے) [س - ۱ - مذ] تدبیر ترکیب منصوبہ۔

آپینن - (آپ - نین) [ہ - ۱ - مذ] بدائش نسل گنہہ پیداوار۔ وھول شدہ معاملہ۔

آپینن - (آپ - نین) [ہ - ۱ - مذ] دیکھنے آئین۔

آپیننا - (آپ - ننا) [ق - مص] (۱) بلند ہونا (۲) گولنا - حصے میں آنا۔

آپنچ - (آپ - بچ) [ہ - ۱ - مذ] (۱) آگنا - نمو - اُبھار - (۲) نئی بات - ایجاد - اختراع۔

آپنچ کی لینا - (مبارہ) نئی بات نکالنا۔ ایجاد کرنا (۲) نئی تان لگانا (۳) جودت طبع دکھانا۔ حقت پیدا کرنا شیخی دکھانا۔

آپنچا ہارا (آپنچا ہارا) (آپ - جان - ہا - را) [ق - ۱ - مذ] خالق - پیدا کرنے والا - خدا۔

آپنچاؤ - (آپ - جاؤ) [ہ - صفت] زرخیز جس میں پیداوار اچھی ہو۔

آپنچنا - (آپنچ - نا) [ہ - مص] پیدا ہونا - آنا۔

آپنچ - (آپ - بچ) [ق] ظاہر - وجود - نمو۔

آپنچان ہاری - (آپ - جان - ہاری) [ق - ۱ - مذ] [ہ - ۱ - مذ] اُبھرنے والی - اُٹھنے والی۔

آپنچاؤنا - (آپ - جاؤنا) [ق - مص] آباد کرنا۔

آپنچری - (آپ - چوری) [ق - ۱ - مذ] حور - پری - خوبصورت عورت۔ آپسرا
آپنچین - (آپ - دین) [ہ - ۱ - مذ] (۱) نصیحت - مشورہ - نیک صلح - فہمائش (۲) تعلیم - وعظ (۳) تجویز - ہدایت۔
آپنچشک - (آپ - مذ) نامح - استاد - وعظ - لیکچرار۔
آپنچا ڈھر - (آپ - راڈھ) [س - ۱ - مذ] پاپ تصور - جرم (۲) جھول - چوک۔
آپنچا دھی - (آپ - لا - دھی) [س - صفت] پاپی - ملزم
آپنچر - (Upper) [انگ - صفت] (۱) بلند - اعلیٰ - (۲) اوپر کا - بالائی۔

آپڑنا (آپڑنا) (آپڑنا) [ق - مص] پہنچنا۔ رسائی ہونا۔

آپڑنا - (ہ - مص) اکھڑنا۔ نشان پڑنا۔

آپس - (آپس) [ق] (۱) حکم (۲) اپنا - اپنے - آپ
آپسنا - (آپس - نا) [ق - مص] آپسے

آپسرا - (آپس - س) [س - ۱ - مذ] (۱) جنت کی پری (۲) زہریلوں کی ایک قسم۔ اندر کی سجاہیں ماچنے والی پری۔ طوائف (۳) خوبصورت عورت۔

آپسے - (آپ - سے) [ق - مص] "آپ سے" کا بگاڑ۔ مراد از خود۔

آپنچار - (آپ - کار) [س - ۱ - مذ] مہربانی - غنائت - توجہ - احسان۔

آپلا - (آپ - لا) [ہ - ۱ - مذ] (۱) کڈنا - گورہ - ایندھن کے لیے گورہ کے کھالے ہونے لگے (۲) تھپانی (۳) بقطع - بدنا۔

آپلا یا تھنا (تھپنا) (مص) اپنے بنانا - گورہ جمع کر کے اُپلے گھڑنا۔

آپلانی (Apply) (آپ - لا - ای) [انگ - مص] درخواست کرنا۔ عرضی دینا۔

آپلی - (آپ - لی) [ہ - ۱ - مذ] چھوٹا آپلا - کنڈی۔

آپلیکیشن (Application) (آپ - لی - کے - ش) [انگ - ۱ - مذ] درخواست - عرضی۔

آپن - (آپ - ن) [ق - مص] اپنے سے منعلق - اپنا بن - خود۔

آپینا - (آپ - نا) [ہ - مص] (۱) میرا - ہمارا (۲) ذاتی - حج کا خاص (۳) تمہارا (۴) رشتہ کا۔ گنہہ کا۔ بھائی برادر - اولاد - بیگانہ (۵) ہمدرد - دوست (۶) مقصود - مملوکہ - ذرخیر۔

آپنا آپا - اپنا نفس - اپنا دل - اپنی جان۔

آپنا اپنا - جدا جدا - انگ - انگ - ہر ایک کا۔

آپنا اپنا پر اپنا پر اپنا - (ایشل) عزیز سے لاکھ گڑھی جو پھر بھی عزیز ہے اور غیر گنتا ہی دم بھر سے لیکن عزیز کے برابر نہیں ہو سکتا۔

آپنا اپنا ہی - اپنی اپنی طبیعت بارائے۔
آپنا اپنا (راستہ) راستہ لینا۔ اپنی اپنی طرف چلے جانا۔ اپنی اپنی مرضی کرنا۔
آپنا اپنا کرنا اپنا اپنا بھرنے [ایشل] جو جیسا کرے گا ویسا بھرے گا۔
آپنا اپنا کمانا اپنا اپنا کھانا۔ اپنی قوت بازو سے پیدا کر کے گزارہ کرنا (۲) شخص اپنی جگہ مختار ہے۔ آزاد ہے۔
آپنا اپنا گھولنا اپنا اپنا پیو - اپنے کام کے لیے اپنی گروہ سے صرف کر دو۔
پرائی چر میں حصہ نہ لگاؤ۔
آپنا اپنا لہنا ہے - [منش] اپنی اپنی قسمت ہے۔
آپنا اپنا مذاق - ہر شخص کا اپنا اپنا سٹون اور خواہش انگ انگ ہوتی ہے۔
آپنا اپنا مقدر - اپنا اپنا مقصوم - اپنا اپنا نصیب - اپنا اپنا نصیبہ - ہر

شخص کی قسمت الگ الگ ہے۔

اپنا اپنا ہی ہے پر اپنا پر اپنا ہی ہے۔ [مشل] عز و عز پر ہی ہے۔ غیر
 میر ہے۔ (۲) اپنی چیز پر پورا اختیار ہوتا ہے چیز کی چیز پر کیا اختیار۔
 اپنا آٹو سیدھا کرنا۔ اپنا مطلب نکالنا۔ اپنا کام بنانا کسی کو حق بنا کر اپنا کام نکالنا
 اپنا آٹو کہیں نہیں گیا۔ ہمارا مطلب ہر حال میں نکل ہی آئے گا۔ (۲) کوئی نفع اٹھانے
 یا نقصان ہم اپنے شکے سیدھے کو ہی لیں گے (۳) ہمارا کام تو ہو کر ہے گا۔
 اپنا بالالاور پر اپنا ڈھینگر۔ اپنا پوت پر اپنا ڈھینگر۔ ایک ہی بات پر اپنے بچے
 کو نادان کہہ کر پھوڑ دینا مگر دوسرے کے بچے کو برا بھلا کہنا۔

اپنا بس چلنا۔ اپنا قابو ہونا۔

اپنا بنا لینا۔ موافق کر لینا۔ اپنے ساتھ ملا لینا۔ دوست بنا لینا۔
 اپنا بنا لانا۔ (محاورہ) طرف دار بنانا۔ دوست بنانا (۲) رشتہ جوڑنا کسی
 چیز کو اپنی ملکیت قرار دینا (۳) فریضہ بنانا۔ دلدادہ بنانا۔

اپنا بوجھ ڈالنا۔ اپنا بار دوسرے کے سر ڈالنا۔

اپنا پھلنا چاہنا۔ اپنے ہی فائدے کا خواہاں ہونا۔

اپنا بھی خدایا ہے۔ جب کسی طرف سے مایوسی ہو تو کہتے ہیں یعنی اگر ظالم نے
 یا تم نے مدد نہیں کی تو خیر خدا ہمارا کام کر دے گا۔

اپنا (بیکانہ) پر اپنا۔ بیکانہ دیکھنا۔ عزیز وغیرہ۔

اپنا پین۔ اپنا پیت۔ بیکانہ۔

اپنا پیٹ تو کتا بھی یا لکڑی ہے۔ [مشل] اس شخص کے متعلق کہتے ہیں جو اپنی
 حق پروری کرنے اور دوسروں کی خیر نہ لے۔

اپنا پیٹ کاٹ کر قرض آنا۔ [مشل] بھوکا رہ کر اور پیسہ بچا کر
 قرض ادا کرنا۔

اپنا پیٹ مارنا۔ (محاورہ) اپنی خواہش کو مٹانا۔ اپنے نفس کو با دینا۔

(۲) اپنا کرنا۔

اپنا پیسہ (سونا) کھوٹا رکھنے والے کا کیا دوش۔ [مشل] اپنی ہی اولاد
 لائق نہیں تو دوسرے کی کیا خطا۔

اپنا تن پہلے دھاگوں دوسرے کو نہ لگا چھپے کہنا۔ [مشل] اپنی برائیاں
 تو پہلے دور کر لو پھر دوسرے کو برا کہنا۔

اپنا تو شہ پہلے بھروسہ۔ [مشل] اپنا بند و بست خود کرنا۔ دوسرے کے
 بھروسے پر نہ رہنا چاہیے۔

اپنا ٹھکانہ (کرنا) کر لینا۔ اپنے گزارے کی تدبیر کرنا۔ اپنے لئے کوئی
 جگہ تلاش کرنا۔ اپنے رہنے کی جگہ پیدا کرنا۔

اپنا ٹھیک نہیں اور کا نیک نہیں۔ [مشل] بیوقوف اور نا سچ شخص کے
 متعلق کہتے ہیں کہ نہ اپنی عقل ہے نہ دوسرے کی رائے پسند آتی ہے۔

اپنا ٹینٹ نہ ہمارے اور کی بھلی دیکھے۔ [مشل] اپنے بڑے بڑے بیوقوفوں
 کو نہیں دیکھتے لیکن دوسروں کی ذرا سی خطا کو بھی معاف نہیں کرتے۔

اپنا (اپنے) جو ہر دکھانا۔ (محاورہ) (۱) اپنا ہنر ظاہر کرنا (۲) اپنے
 عیبوں کو ظاہر کرنا۔

اپنا سچی۔ اپنی طبیعت یا خواہش۔

اپنا حساب کر لو۔ (محاورہ) اپنا معاملہ صاف کر لو۔ اپنا لین دین چکا لو۔

(۲) نوکری چھوڑ دو۔

اپنا خون پینلہ (محاورہ) رنج و غم سہنا۔ بیچ ڈنا بکھانا۔ ناگوار بات چیر
 کرنا۔ تاؤ کھانا مگر پچھتہ نہ کہنا۔

اپنا دل۔ اپنی خواہش یا نیت یا مرضی۔

اپنا دیکھے پر اپنا کیجئے۔ [مشل] قرض دے کر شرمی مول لو۔

اپنا رکھ پر اپنا چکھ۔ [مشل] اپنی چیز حفاظت سے رکھنا اور دوسرے کی ہڑپ کر جانا۔

اپنا راستہ لو۔ اپنے کام سے لگو۔ جاؤ چلے جاؤ۔

اپنا (ہی) رونا رونا۔ اپنا دکھ درد بیان کرنا۔ دل کا رنج ظاہر کرنا۔ اپنا
 ہی درد بیان کرتے رہنا۔

اپنا سا۔ مقابل۔ خود جیسا۔

اپنا سا جانا ہے۔ دوسرے کو اپنا جیسا خیال کرنا۔

اپنا سا حال دوسروں کا بھی جانو۔ (مقولہ) دوسروں کی تکلیف کا بھی خیال رکھو۔

اپنا سامنے لے کر لے کر رہ جانا۔ (محاورہ) نحیف و نادام ہونا۔

سوال پورا نہ ہونے کی شرم سے چپ رہ جانا۔ شرمندگی اٹھانا۔

بانت کا جواب نہ بن جانا۔

اپنا سیتا دیکھ کے۔ (محاورہ) اپنی فکر کر کے۔ اپنا انتظام کر کے۔

اپنا سیتا کرنا۔ اپنے لیے کوئی ٹکریا تدبیر کرنا۔ اپنے لیے آرام کی صورت پیدا کرنا۔

اپنا سر۔ (بدزورہ) کچھ نہیں۔ حاکم نہیں۔ ذرا بھی نہیں۔

اپنا سر بیٹو۔ (محاورہ) اپنے کیے کا عیاذہ بھگتو۔ اپنی کوئی پریشیاں ہو۔

اپنا سر کھاؤ۔ (محاورہ) جو مرضی ہو کر ہو۔ بات نہیں سنتے تو تمہارا جان اور تمہارا کام۔

اپنا سلام ہے۔ (محاورہ) ہم تو وہ بھگتے ہیں جلتے ہیں۔ پرہیز کرتے ہیں معاف رکھو۔

اپنا سمجھو۔ (محاورہ) تکلف نہ کرو۔ معاف کر دو۔

اپنا سوپ مجھے دے تو ہاتھوں پھوڑو۔ [مشل] اپنا چھاج مجھے دے
 دے اور تو اپنا غلہ اپنے ہاتھوں سے پھٹک لے۔ اپنی چیز دے کر

خود محتاج ہونا۔

اپنا سوکھنا کرنا۔ (محاورہ) اپنی فکر کرنا۔ عاقبت اندیشی کرنا۔

اپنا فائدہ نشجرہ رکھ چھوڑ بیٹے۔ اپنا فائدہ شجرہ سنبھالو۔ اپنا کام خود سنبھالو۔

اب آپ کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں رہا۔

اپنا کام کرو۔ (محاورہ) اپنے کام میں لگو۔ ہٹو۔ سرکو۔ پرے ہو۔

اپنا کتا باندھو ہم بھیک سے باز آئے۔ [مشل] ہم فائدے سے
 درگزر سے۔ ہمیں نقصان نہ پہنچائے۔ نفع نہ پہنچاؤ تو دکھ بھی نہ دو۔

اپنا کر لینا۔ (۱) قبضہ میں لے آنا۔ مال مال دینا (۲) دوست بنا لینا۔ موافق بنا لینا۔

اپنا کرنا اپنا بھرننا۔ (محاورہ) انسان جو کچھ کرتا ہے۔ اس کی سزا یا جسٹا
 پاتا ہے۔

اپنا کہا کرنا۔ (محاورہ) اپنی رائے پر چلنا۔ کسی کی سنانا۔

اپنا کھانا اپنا بھننا۔ (محاورہ) کسی کا دست مگر نہ ہونا۔

اپنا کیا آئے آیا۔ [مشل] بڑے فعل کا عیاذہ بھگتو پڑا۔

اپنا کیا پانا۔ (محاورہ) اپنے فعل کی سزا بھگتو۔ کیسے کردار کو پہنچنا۔

اپنا کوشت کھانا۔ (محاورہ) مجبوری کے عالم میں غصہ آنا۔

اپنا کھنا کھو لیے آپ ہی لاجوں مرے۔ (کماوت) اپنا عیب ظاہر کیجئے

اور آپ ہی شرمندگی اٹھایے۔

اپنا گھر بھڑا۔ (محاورہ) کسی کی دولت کو دستہ رفتہ اپنے قبضہ میں لانا۔

اپنا گھر جانتا (محاورہ) مغائرت کو دود کر کے اپنا گھر بھڑا۔ عزیز بھڑا۔

اپنا گھر بگ بھر، پر اپنا گھر تھوک کا ڈر۔ (مثلاً) اپنے گھر میں آدمی کو جو اختیار

اور آزادی ہوتی ہے وہ بخر کے گھر میں کہاں۔

اپنا گھر دور سے سوجھتا ہے۔ (مثلاً) اپنے مطلب پر سب سے پہلے نظر

جاتی ہے۔

اپنا گھر دیکھنا۔ (محاورہ) اپنے فائدے پر نظر رکھنا۔

اپنا لال گنوا کے درو رو مانگے بھیک۔ (مثلاً) اپنی دولت لٹا کر دوسروں

کا محتاج ہونا۔

اپنا لہو پینا۔ (محاورہ) رنج و غم سہنا۔ بیچ و ذاب کھانا۔

اپنا لینا کیا پر اپنا دینا کیا۔ (مثلاً) نہ اپنا قرض لینا نہ دوسرے کا قرض دینا۔

اپنا مارے گا تو بھر چھاؤں میں بھٹائے گا۔ (مثلاً) عزیز لاکھ دکھ دے پھر بھی

اُس کو رحم آبی جانتے ہے۔

اپنا مال اپنی پھیلتی تے۔ اپنی چیز کی خود ہی پوری پوری حفاظت ہو سکتی

ہے۔ مال عرب پیش عرب۔

اپنا مال جائے آپ ہی چور کھائے۔ (مثلاً) نقصان بھی اپنا ہو اور

الزام بھی اپنے پر آئے۔

اپنا من جگت کی ہنسی۔ (مثلاً) خود برباد ہونا اور دوسروں کو اپنے آپ پر

ہنسانا۔

اپنا مطلب نکالنا۔ اپنی غرض حاصل کرنا۔ اپنا کام بنانا۔

اپنا مکان کوٹ سمان۔ (مثلاً) اپنا گھر تلے کی طرح ہزتا ہے۔ شخص

اپنے گھر میں اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہے۔

اپنا منہ بنواؤ۔ بنو اپنے۔ قابلیت پیدا کرو۔ مرتبہ حاصل کرو۔

اپنا منہ دھو رکھو۔ تم اس چیز کے لائق نہیں۔ یہ کام تمہارے بس کا نہیں

اس خیال سے درگزر کرو۔ بر کام تم سے نہ ہوگا۔

اپنا منہ لے کے رہ جانا (محاورہ) دیکھئے اپنا سامنے لے کے رہ جانا شرمندہ ہونا

اپنا نام بدل ڈالیں۔ ضرور ایسا ہی ہوگا۔ اگر ایسا نہ ہو تو ہم اپنا نام بدل

ڈالیں۔ شرط اور دعویٰ کے موقع پر کہتے ہیں۔

اپنا منیگر پر اپنا ڈھینگر۔ (مثلاً) دیکھیے اپنا بالا اور کا ڈھینگر۔

اپنا ہاتھ اپنے سر پر۔ کوئی والی وارث نہیں جو کچھ ہے وہ آپ ہی کا ہے۔

اپنا ہاتھ کشا ڈالوں۔ کہتا ہوں کہ ایسا ضرور ہوگا۔

اپنا رارا اور مرنی کا مارا کون کہتا ہے۔ (مثلاً) جواری اپنا نقصان اور جوڑ

سے مار کھائے والا کسی کو نہیں بتاتا۔ اپنی خواری اور ذلت پر پردہ ڈالتا ہے

اپنا ہونا۔ دوست ہونا۔ یگانہ بننا۔

اپنا نا۔ (آپ۔ نانا) [ہ۔ رص] اپنا کرنا۔ اپنی ملکیت بنانا۔ اپنی طرف کرنا۔

اپنا تیسٹ۔ (آپ۔ نا۔ ا۔ ریت) [ہ۔ صفت] (۱) بیجا حکمت۔ عزیز داری۔

قرابت (۲) و عدم معاملہ (۳) کتبہ۔

اپنے سے سائٹس (Appendicitis) [انگ۔ ۱۔ نڈا] دیکھیے

انتہاب زائدہ۔

آپنڈیکل۔ (آپ۔ ن۔ شد) [ہ۔ ۱۔ مٹش] ہندوؤں کی مذہبی کتاب میں جن میں

ویدوں کا انتخاب درج ہے۔

انہوں پر لکھا۔ (محاورہ) ہرگز نہ ماننا۔ ضد چڑھ گئی ہے۔

اپنی۔ (آپ۔ نی) [ہ۔ ۱۔ مٹش] اپنا کی تائید۔ ذاتی۔

اپنی آبرو اپنے ہاتھ۔ [مٹش] انسان وہ کام ہی نہ کرے جس سے عزت

میں فرق آئے۔

اپنی آگ میں آپ جلنا۔ رشک و حسد اور غصے سے آپ ہی بھینکنا۔

کسی کو خوشحال دیکھ کر بوجھ ہونا۔

اپنی آنکھ میں۔ اپنی نظر میں۔

اپنی آنکھ کا شہ تر نظر نہیں آتا دوسرے کی آنکھ کا تنکا نظر آجاتا ہے۔

[مثلاً] اپنے بڑے عیبوں پر نظر نہیں جاتی اور دوسرے کا معمولی

نقص و عیب نظر میں آجاتا ہے۔

اپنی اپنی بولیاں بولنا۔ ہر ایک کا الگ رائے ظاہر کرنا۔ اپنے اپنے

مطلب کی کہنا۔

اپنی اپنی طرنا۔ نفسی نفسی ہونا۔ اپنا ہی اپنا خیال ہونا۔ آبادھانی ہونا۔

اپنی اپنی ذلتی اپنا اپنا راگ۔ [مثلاً] ہر شخص الگ الگ راہ پر ہے۔

اپنی اپنی سب شکست میں گئے جس پر جیسی پڑے گی وہ نباہ لے گا۔

اپنی اپنی (سمجھ ہے) طبیعت ہے۔ اپنی اپنی عقل ہے۔ جس کی سمجھ میں

ہے وہ بھی آجاتے اپنی اپنی مرضی ہے۔

اپنی اپنی قسمت۔ اپنا اپنا نصیب۔

اپنی اپنی کھال میں مسرت ہونا۔ [مثلاً] دوسروں سے الگ تھلگ ہو کر

اپنا ٹھانڈا نام رکھنا۔ سبے علیحدہ رہنا جماعت سے تفران کرنا۔ خود رائی۔

اپنی اپنی (کہنا) گا۔ اپنی اپنی رائے کا اظہار کرنا۔ اپنا مطلب ظاہر کرنا۔

اپنی اپنی گور اپنی اپنی منزل۔ [مثلاً] کوئی کسی کا ساتھ نہیں دیتا۔ ہر ایک

کے بہک و بد اعمال اس کی اپنی ذات سے تعلق رکھتے ہیں۔

اپنی اڑھانی اڑنٹ کی مسجد الگ بنانا۔ [مثلاً] دوسروں سے الگ تھلگ

ہو کر اپنا ٹھانڈا نام رکھنا۔ سبے علیحدہ رہنا۔ جماعت سے تفران کرنا۔ خود رائی۔

اپنی اصل (اصالت) پر آجانا۔ اپنی ذات کے موافق کوئی کام کرنا۔ بیچ

قوم کا کوئی بڑا کام کرنا۔

اپنی اور تیری جان ایک کر دوں گا۔ نہایت غصہ میں کہنا کہ مجھے مار ڈالو گا

اور اپنے آپ کو بھی ہلاک کر لوں گا۔

اپنی او لاد سے پائے۔ (حو۔ محاورہ) بددعا۔ کوسنا۔ ظالم کو اس کے

ظلم کا بدلہ اس کا اولاد سے لے۔

اپنی اٹری ڈیکھو۔ (محاورہ) نظر نہ لگاؤ۔ ٹوکو نہیں۔ جب کوئی بے سائنت کسی

کے حسن کی تعریف کرے تو اس خیال سے کہ نظر لگ نہ جائے۔ عجز میں

یہ فقرہ کہتی ہیں۔

اپنی ایسی تیسی کر لینا۔ (محاورہ) اپنا ہی کچھ بگاڑ لینا۔ کسی کو نقصان پہنچانے

کے بدلے میں اپنا نقصان کر لینا۔

اپنی ایسی تیسی میں جلنے۔ اپنا سر کھانے۔ بھاڑ میں جلنے۔ کچھ بھی ہو

ہمیں کیا غرض۔

اپنی چھابھ کو کوئی کھٹا نہیں کتا۔ [مثلاً] اپنی چیز کو سب اچھا بتاتے ہیں۔
 اپنے کام میں کوئی عیب نظر نہیں آتا۔
 اپنی خبر لینا۔ اپنے گریبان میں منہ ڈالنا۔ اپنے حال کو دیکھنا۔
 اپنی خبر نہیں۔ بالکل بے خود ہیں۔
 اپنی خوشی کا۔ خود رائے۔ جنتی۔
 اپنی دفعہ۔ اپنا گھر آنے پر۔ اپنی بار۔
 اپنی ڈاڑھی کٹنے کے پشیمان سے منڈوا ڈالیں۔ [مثلاً] کام نہ ہو تو جو چاہے کر لینا۔ شرط اور دعویٰ کے طور پر کہتے ہیں۔
 اپنی ڈیڑھا اینٹ کی مسجد الگ بنانا۔ [مثلاً] سب سے الگ ہو کر رہنا کسی کی رائے نہ ماننا۔ اپنی ہی رائے پر قائم رہنا۔
 اپنی ذات سے اچھے ہیں۔ (محاورہ) اپنے دم لے اچھے ہیں۔
 اپنی مادھا کو یاد کرو۔ (محاورہ) اپنا کام کرو۔ جاؤ ہم سے تم سے کچھ واسطہ نہیں۔ اپنا راستہ بیکرو۔
 اپنی ران کھولنا۔ (محاورہ) اپنا پوشیدہ عیب ظاہر کرنا۔
 اپنی راہ (دیکھنا) لگنا۔ اپنی راہ لینا۔ اپنے کام میں مصروف رہنا۔
 اپنی راہ (لو) لے۔ اپنا کام کرو۔ دوسرے کے معاملے میں دخل نہ دو۔
 اپنی سُدھ نہ رہنا۔ (محاورہ) بے خبری کے عالم میں رہنا۔
 اپنی سی۔ مقدمہ۔ تاجروں کا مکان۔ اپنی مرضی کے مطابق۔
 اپنی سی بہت (کرنی) کی۔ تا بمقدور کوشش کرنی۔ اپنی طرف سے پوری سعی کرنی۔
 اپنی سی کر جینا۔ اپنی سی کر دیکھنا۔ اپنی سی کر گزرنے۔ اپنا کام کر جانا۔ جیسی ہو سکے بسر کر جانا۔ سختی المقدور کوشش کرنا۔
 اپنی سی نہا ہونا۔ اپنے امکان بھر و صدعاوری کا برتاؤ کرنا۔
 اپنی طرف خیال کرنا۔ دھیان کرنا۔ دیکھنا۔ اپنے مرتبے عزت اور بڑائی کا لحاظ رکھنا۔
 اپنی طرف سے۔ آپ ہی۔ اپنے ذہن سے۔ اپنی طبیعت سے۔
 اپنی طرف کھینچنا۔ اپنی طرف مائل کرنا۔
 اپنی عقل اور پرانی دولت بہت بڑی معلوم ہوتی ہے [مثلاً] شخص اپنی عقل اور دوسرے کی دولت کو بہت زیادہ خیال کرتا ہے۔
 اپنی عمر سے مرنا۔ (محاورہ) عمر طبع کو پہنچ کر مرنا۔
 اپنی عرض کا آشنا ہونا۔ (محاورہ) خود غرض ہونا۔ اپنا مطلب نکالنے تک یاد ہونا۔
 اپنی غرض کو۔ (محاورہ) اپنے مطلب کی خاطر۔
 اپنی غرض کو گدھے چراتے ہیں۔ [مثلاً] غرض مند کو ذیل سے ذلیل کام بھی کرنا پڑتا ہے۔
 اپنی غرض کو گدھے کو بھی ماب بناتے ہیں۔ [مثلاً] غرض مند آدمی کو ذیل سے ذیل انسان کی تہی خوشامد کرنا پڑتی ہے۔
 اپنی قدر آپ ہی نہ جانی۔ (۱) خود ہی اپنے آپ کو ذیل کر لیا (۲) اپنی حیثیت کا خیال نہ کیا۔
 اپنی قسمت کا لے اترنا۔ اپنی روزی اپنے ساتھ لانا۔

اپنی بات (عزت) اپنے ہاتھ [مثلاً] اپنا ذوق اپنے ہاتھ میں ہے۔
 اپنی بات اپنے ہاتھوں کھونا۔ (محاورہ) خود کوئی ایسا نکل کرنا جس سے اپنی عزت اور توفیق میں فرق آجائے۔
 اپنی بات پر (آجانا) آنا۔ اپنے کے پر اڑ جانا۔ ضد کرنا۔
 اپنی بات کا ایک ہے۔ پکا ہے۔ پورا ہے۔ (محاورہ) بات کا پکا ہے۔
 راجح القول ہے۔ عود کا بنا ہونے والا ہے۔
 اپنی باقی نہ چھوڑنا۔ اپنے ہنٹھکنڈے نہ چھوڑنا۔ [مثلاً] اپنی حرکت سے باز آنا۔
 اپنی بساط کو دیکھو۔ (محاورہ) اپنی حیثیت دیکھو۔ اس قابلیت پر یہ دعویٰ کرنا درست نہیں۔
 اپنی بساط سے بڑھ کر کام کرنا۔ (محاورہ) اپنی طاقت سے بڑھ کر کام کرنا۔
 اپنی بکنا اور کسی کی نہ سمننا۔ (محاورہ) اپنی بات کہے جانا اور دوسرے کی نہ سمننا۔
 اپنی بلا اور کے سردھرننا۔ اپنی مصیبت دوسرے کے سر ڈالنا۔
 اپنی بلا سے۔ ہم کو کچھ پرواہ نہیں۔
 اپنی بھوک کھانا اپنی بیند سونا۔ [مثلاً] آزادی سے زندگی بسر کرنا۔ کسی کا میٹھ نہ ہونا۔
 اپنی بڑی ہے۔ (محاورہ) اپنی ہی فکر ہے۔
 اپنی بڑی اپنے ہاتھ ہے۔ [مثلاً] اپنی عزت لینے ہاتھ میں ہوتی ہے۔
 اپنی پیٹھ نہیں دکھائی دیتی۔ [مثلاً] اپنا عیب لینے آپ کو نظر نہیں آتا۔
 اپنی بیڑ پرانی باتیں۔ [مثلاً] اپنی مصیبت تو مصیبت ہے دوسرے کی مصیبت نہیں۔
 اپنی تقدیر کو رونا۔ اپنے قسمت کی شکایت کرنا۔
 اپنی ٹانگ (ران) کھولے آپ ہی لاجوں مرے۔ [مثلاً] اپنی بڑائی یا تکلیف بیان کرنے سے اپنی ہی بے عزتی ہوتی ہے (بزرگیے اپنا کھٹا کھولنے) اپنی مٹی لگائے جانا۔ اپنے ہی مطلب کی کہ جانا۔
 اپنی جان پر کھیلنا۔ (محاورہ) جان جو کھولن کا کام کرنا۔ جان دینے کو تیار رہنا۔
 اپنی جان سب کو پیاری ہوتی ہے۔ اپنی جان بچانے کی سب کوشش کرنے ہیں۔ خود کے کام سے ہر ایک جان چراتا ہے۔
 اپنی جان کو رونا۔ (محاورہ) شکوے، شکایتیں کرنا۔
 اپنی جگہ۔ اپنے عوض۔ اپنے برے ہیں۔
 اپنی جمانا۔ (محاورہ) اپنا اثر چھانے کی کوشش کرنا۔
 اپنی جوانی سے پائے۔ (بدوعل) جوانی میں مرجائے۔
 اپنی چال سے نہ چوگنا۔ اپنے کڑوت سے باز نہ آنا۔
 اپنی چلم بھرنے کو میرا جھونٹا جلاتے ہو۔ [مثلاً] اپنے تھوڑے سے ناندے کے لئے پھر غریب کا اتنا بڑا نقصان کتنے ہیں۔
 اپنی چھاتی پر ہاتھ دھر کے دیکھو۔ اپنا سال دوسروں کو بھی جاؤ دوسرے کے دکھ کو بھی دکھ گھو۔ انصاف کرو۔

اپنے اُپرے لینا۔ اپنے اُپر اُڑھ لینا۔ کسی کی بُرائی یا قصور کو اپنے ذمے لینا۔
 اپنے بچترے کے دانت سب کو معلوم ہوتے ہیں۔ [مثل] والدین یا عزیز اپنی اولاد یا اپنے عزیز کی عمر اور اخلاق و عادات کو خوب جانتے ہیں۔
 اپنے بچے کو ایسا ماروں کہ پڑوسن کی چھاتی پھٹے۔ [مثل] کسی کے دکھانے کو اپنا نقصان کرنا۔
 اپنے بس۔ اپنے اختیار۔
 اپنے بھاویں۔ اپنے نزدیک۔ اپنے حسابوں۔
 اپنے بیروں کو کبھراکھے نہیں بنانا۔ [مثل] اپنی چیز کو کوئی خراب نہیں کرتا۔
 اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا۔ کسی امداد کے بغیر اپنا کام خود چلانا خود کفیل ہونا۔
 اپنے پاؤں چلانا۔ اپنے پاؤں سے چلنا۔ بغیر ہمارے کے پیدل چلنا۔
 اپنے پاؤں میں آب کھناڑی مارنا۔ [مثل] اپنا بُرا آپ کرنا۔ خود ہی اپنا نقصان کر لینا۔
 اپنے پر۔ اپنی ذات پر۔
 اپنے پرانے کی ٹھوکریں کھانا۔ عزیزوں اور غیروں سے دکھا اٹھانا۔
 بیگانوں اور بیگانوں میں ذلیل ہونا۔
 اپنے پرانے کی سمجھ۔ بیگانے بیگانے کی بھوک۔
 اپنے پُرت کموارے پھرے۔ پُرت دس کے پھرے۔ [مثل] اپنے کونوں کی نوکرتیں نہیں۔ پُرتوں کے بچوں کی شادی کی فکر ہے (۲) عزیز محروم وہیں اور دوسرے خانوے آٹھا ہیں۔
 اپنے بریکو بان۔ واسطہ لانے کی جگہ کہتے ہیں۔ تجھے اپنے مرشد یا بڑے کی اپنے تک نہ کہنا۔
 اپنے رنگ رکھنا۔ (محاورہ) راز رکھنا۔ پردہ فاش نہ کرنا۔ کسی سے نہ کہنا۔
 اپنے نہیں۔ آپ کو۔ اپنی ذات کو۔ اپنے کو۔
 اپنے نہیں لیے دیتے رہنا۔ خود داری کا لحاظ رکھنا۔ منانت سے کام لینا۔
 اپنے جانے سے باہر ہونا۔ پھولانہ سمانا۔ نہایت خوش ہونا۔ خوشی یا فحشہ میں قابو سے باہر ہونا۔ آپس میں نہ رہنا۔
 اپنے جلے سے (باہر) نکل جانا۔ بے خود ہوجانا۔
 اپنے جھوٹے کی خیر مانگو۔ اپنے قرح کی خیر مانگو۔ [مثل] تمہیں دوسروں کی کیا پڑی ہے۔ اپنی بہتری کی کوکشتش کرو۔
 اپنے چلتے۔ مخدہ رجر۔ حتی الوسع۔
 اپنے حال پر رہنا۔ پتھر سابق رہنا۔ اپنی حالت تبدیل نہ کرنا۔
 اپنے حال میں مست ہیں۔ (محاورہ) جس طرح میں غور رہی ہے اس میں خوش ہیں۔
 اپنے حال میں نہ رہنا۔ (محاورہ) اپنی حیثیت میں نہ رہنا۔ بے خود ہوجانا۔
 اپنے حساب (حسابوں) اپنی دانست میں۔ اپنے نزدیک۔
 اپنے حق میں کانٹے لونا۔ اپنے حق میں نہ کرنا۔ اپنے لیے بُرائی کرنا مدہ کام کرنا جس سے خود کو نقصان پہنچے۔
 اپنے خدا کو مان۔ خدا کا خیال کر کے بات کر۔ خدا کا واسطہ دینے کو کہتے ہیں۔
 اپنے دام کھوٹے پرکھنے والے کا کیا دوس۔ [مثل] اپنی چیز میں بُرائی ہو

تو بُرائی ٹھکانے والے بریکیا الزام۔
 اپنے دل پر ہاتھ (دھرو) دھو دیکھو۔ اپنی حالت کا اندازہ کر لو۔ پھر کسی سے کچھ کہنا۔
 اپنے دل کے (بادشا) مختار ہیں۔ جو جہاں سوکریں کسی کے پابند نہیں۔
 اپنے دم سے اچھے ہیں۔ اپنی ذات سے بھلے ہیں خود اچھے ہیں۔
 اپنے دنوں کو بُرا کرنا۔ تنگی ترستی سے بسر کرنا۔ سوت کا انتھار کرنا۔
 اپنے دنوں کو زونا۔ (۱) اپنی قسمت اور مصیبت پر افسوس کرنا۔ (۲) اپنی بد نصیبی کا بیان کرنا۔
 اپنے دہی کو کون کھٹا کہتا ہے۔ [مثل] اپنی چیز کو کوئی بھی بُرا نہیں بنانا۔
 اپنے ڈھانی جانول الگ۔ گلانا یا ڈھانی جانولوں کی کھچڑی الگ بیکانا۔
 سب کی رائے سے الگ رائے رکھنا۔ کسی کے کئے پر عمل نہ کرنا۔ اپنی ڈیڑھ اینٹ کی مسجد الگ بنانا۔
 اپنے ڈھب کا۔ (محاورہ) اپنے رنگ کا، اپنی روش کا۔ اپنے مطلب کے موافق۔
 اپنے رنگ میں رنگنا۔ اپنے جیسا کر لینا۔ اپنا ہم مشرب بنانا۔
 اپنے زور میں آپ آ رہنا۔ (محاورہ) ایسی بے موقع زور آزمائی کرنا کہ آدمی خود ہی گر پڑے (۲) کوئی ایسا کام کر لینا جو نقصان پہنچانے۔
 اپنے ساتھ لینا۔ (محاورہ) اپنے ساتھ دوسروں کو بھی شامل کرنا۔
 اپنے ساتھ لے ڈھونا۔ (محاورہ) اپنے ساتھ تباہی میں ڈالنا۔ اپنے ساتھ دوسرے کو نقصان پہنچانا۔
 اپنے سائے سے وحشت کرنا۔ (محاورہ) حد سے زیادہ وہی ہونا۔
 اپنے سائے سے وحشت ہونا۔ (محاورہ) اپنے آپ سے بھی خوف کے مارے گھیر لے لگن۔ بہت زیادہ وہی ہونا۔
 اپنے سایہ سے بچنا۔ (محاورہ) طے سے بڑبڑ کرنا۔ دوسروں سے بہت بدگنا۔
 بے مدد احتیاط کرنا۔
 اپنے سر آفت (بلا) لینا۔ اپنے سر مصیبت لینا۔ اپنے اوپر تکلیف گوارا کرنا۔
 کوئی مشکل کام کو اپنے ذمے لینا۔
 اپنے سر اُڑھ لینا۔ (محاورہ) بُرائی یا قصور کو اپنے ذمے لینا۔
 اپنے سر پر کھینا۔ (محاورہ) ہر قسم کی تکلیف کھینا۔ جان بھینسی پر رکھنا۔
 اپنے سر (سے) لینا۔ (محاورہ) اپنے ذمے لینا۔
 اپنے سے بہتر خُدا۔ [مثل] اس شخص کے متعلق کہتے ہیں جو اپنے برابر کسی کو نہ سمجھے۔
 اپنے فرض سے ادا ہونا۔ (محاورہ) جو بات اپنے ذمے واجب ہوا ہے پورا کرنا۔ بیٹی کی شادی سے فارغ ہونا۔
 اپنے کام سے کام۔ (محاورہ) اپنے مطلب سے مطلب۔ اپنی غرض سے غرض ہے۔
 اپنے کام سے کام رکھتے ہیں۔ (محاورہ) اپنے کام میں مصروف رہتے ہیں۔
 کسی طرف توجہ نہیں ہوتے۔ اپنے مطلب سے مطلب رکھتے ہیں۔
 اپنے کام کا نہیں۔ (محاورہ) ہمارے مطلب کا نہیں۔
 اپنے کو۔ (محاورہ) اپنی ذات کو۔ اپنے نہیں۔
 اپنے کو اپنے کا یا س ہونا۔ (محاورہ) دوستوں اور عزیزوں کو ایک دوسرے کا خیال ہونا۔

اپنی قسمت (تقدیر) کو رونا۔ (محاورہ) اپنی بد نصیبی کی شکایت کرنا۔
 بے بسی کی حالت میں بسر کرنا۔
 اپنی کر کے نہ رکھنا۔ (۱) حفاظت سے نہ رکھنا (۲) عورت کو اپنا موافق نہ لینا (۳) احتیاط سے نہ برتنا۔
 اپنی کرنی۔ اپنی حرکت۔ اپنی مرضی کا کام۔ اپنے کرتوت۔
 اپنی کرنی اپنی بھرنی۔ [مثلاً] جو جیسا کرے گا ویسا پائے گا۔
 اپنی کرنی پارا تڑنی۔ [مثلاً] اپنے ہی اعمال اپنے کام آتے ہیں۔ اپنی ہی محنت سے پورا پڑتا ہے۔
 اپنی کرنی پروان کیا ہندو کیا مسلمان۔ [اپنے اعمال اپنے کام آتے ہیں گے چلے کوئی ہندو ہو یا مسلمان ہو۔
 اپنی کرنی کرنا۔ اپنی ضد پر اڑا رہنا۔ جو ٹھان لینا وہی کر گزرنے۔
 اپنی کھلی میں مست ہونا۔ اپنی کھال میں مست ہونا۔ اپنے حال میں خوش ہونا غریب میں گمن رہنا۔
 اپنی کھال میں مست ہونا۔ گمن ہونا۔ (محاورہ) اپنی تھوڑی حیثیت میں بھی خوش رہنا۔
 اپنی کہنا اور کی نہ سننا۔ خود ہی کہے جانا۔ دوسرے کی بات کی طرف خیال نہ کرنا۔
 اپنی کہو، نہ اور کی سنو۔ اپنا خیال نہ ظاہر کرنا اور نہ دوسرے کی بات سننا۔
 اپنی کسی کرنا۔ (محاورہ) اپنی ضد پر اڑے رہنا۔
 اپنی کھی، نہ اور کی سنی۔ جٹ پٹ مر گئے کچھ کھنے سننے بھی نہ پائے۔
 اپنی پھڑھی الگ پکانا۔ (محاورہ) بھجھٹ سے بچنا۔ الگ ہو جانا۔
 اپنی گانا۔ صرف اپنی کہنا۔ اپنی ہی بات کا گیت گانا۔
 اپنی گانٹھ نہ ہو پیسا، پیرایا آسرا کیسا۔ [مثلاً] وقت پر اپنی جیب کا پیسہ ہی کام آتا ہے دوسرے کی گرہ کا کام نہیں آتا۔
 اپنی گرہ کا۔ اپنی جیب کا۔ اپنی ذات کا۔ اپنے بچے کا۔
 اپنی گرہ کا (سے) کہا جاتا ہے۔ ہمارا کیا بوجھ ہوتا ہے۔ ہمارا کیا نقصان ہوتا ہے۔
 اپنی گرہ (گانٹھ) نہ ہو پیسا، پیرایا آسرا کیسا [مثلاً] اپنے بھروسے پر ہی کام ہو سکتا ہے دوسرے کے بھروسے پر نہیں۔
 اپنی گڑیا سوار دینا۔ اپنے مقدور کے مطابق بیٹی کا بیاہ کر دینا۔
 اپنی گلی میں کتابھی شیر ہوتا ہے۔ [مثلاً] اپنے گھر پر کچھ روکھی جو صلہ ہوتا ہے حایت کے بھروسے پر بزدل بھی بہادر بن جاتا ہے۔
 اپنی گوں کا بار۔ اپنی غرض کا بار مطلبی دوست مطلب برست۔
 اپنی گوں کو (محاورہ) اپنے طلب کے لیے۔ اپنی غرض کے لیے۔
 اپنی گوں گانٹھنا۔ چالوسی سے اپنا کام نکالنا۔
 اپنی لینا۔ (محاورہ) تغافل برتنا۔ من مانی کرنا۔
 اپنی مانی سوانا۔ (محاورہ) فاعل کرنا۔ اپنی بات، دوسروں سے سوانا۔
 اپنی مراد کو بیچ جانا۔ مقصد پورا ہو جانا۔
 اپنی مصلحت پر شخص خوب جانتا ہے۔ ہر آدمی اپنی ضرورت اور توقع کو خود ہی ٹھیک سمجھ سکتا ہے۔

اپنی موت مرنا۔ (محاورہ) طبعی موت مرنا۔
 اپنی موچھ منڈا ڈالیں۔ اگر ایسا نہ ہو گا تو ہم اپنی موچھیں منڈا دیں گے جوٹی پھوڑ دیں گے۔
 اپنی ناک جوٹی میں گرفتار۔ اپنے بناؤ سنگار میں مصروف۔
 اپنی ناک کٹی نوکٹی پرانی بدشگونئی تو ہو گئی۔ [مثلاً] اپنی بدنامی اور ذلت ہو کر ہی دوسرے کو اترتھوڑا نقصان پہنچ جائے تو خوش ہونا۔
 اپنی ٹیڑنا۔ (محاورہ) اپنی فکر کرنا۔ اپنی دھن میں رہنا۔
 اپنی نظر میں۔ اپنی جانچ میں۔ اپنے اندازے میں۔
 اپنی نوبت بجانا۔ (محاورہ) علم بسر کرنا۔ وقت گزارنا۔
 اپنی نیند سونا اپنی بھوک کھانا۔ اپنی نیند سونا اپنی نیند اٹھنا۔ آزادی سے زندگی بسر کرنا جب بھی چاہتے سوت رہنا۔ جب دل میں آئے کھا لینا۔ چین سے عکاشا۔ بے فکر اور بے غم رہنا۔
 اپنی والی۔ جہاں تک ہو سکے حتی المقدور (۲) ہٹ۔ ضد۔
 اپنی والی پر آنا۔ (۱) کسی بات پر اڑ جانا۔ اپنی بات کی طرح کرنا (۲) اپنی قیامت اور حیثیت کا اظہار کرنا۔
 اپنی مانگنا۔ (محاورہ) اپنی بات ہی کہے جانا دوسرے کی نہ سننا۔
 اپنی مانی اور دل پر (چھائی) گنوائی۔ [مثلاً] اپنی سبکی اور خفت دوسروں پر ڈال دینا۔ اپنا الزام دوسروں پر پھونپنا۔
 اپنے۔ (آپ سے) (نے) (ہ۔ ض) (۱) عزیز۔ یگانے (۲) ملوک (۳) خاص۔ خود (۴) اپنے دم کے۔ اپنے تعلق کے۔
 اپنے آب۔ خود ہی۔ اپنی ذات سے۔
 اپنے آپ سے گزر جانا۔ بے حد مغرور ہونا۔ غصے یا غرور میں بدعوا اس ہو جانا۔
 اپنے آپ کو۔ آپ کو۔ اپنی ذات سے۔
 اپنے آپ کو کچھ سمجھنا۔ (محاورہ) اپنے آپ کو لائق فائق سمجھنا (۲) خوش فہمی کا شکار ہونا۔ خود کو بڑا سمجھنا۔
 اپنے آپ کو کھینچنا۔ الگ تھلگ رہنا۔ غرور کرنا۔ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا۔
 اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہو، اپنی کس بات پر نازاں ہو کس بات پر مغرور ہو اپنے آپ میں آنا۔ (محاورہ) ہوش میں آنا۔ حواس میں آنا۔ عتدہ دور کرنا۔
 اپنے اپنے سے گزرنے (نکل جانا) اعتدال سے بڑھنا۔ حد سے نکل جانا۔
 اپنے سے باہر ہونا۔ اپنی ہستی کو بھول جانا۔
 اپنے آگے پائے۔ (محاورہ) (بددعا۔ خدا رکھے۔
 اپنے آگے کسی کو نہیں گنتے۔ اپنے برابر کسی کو نہیں سمجھتے۔ خود پسند اور مغرور بن جانا۔
 اپنے اپنے حال میں مست ہیں۔ کسی کو کسی کی فکر نہیں۔ شخص اپنے حال میں گمن ہے۔
 اپنے اپنے گھر سب بادشاہ ہیں۔ اپنے اپنے گھر کا شخص کو اختیار ہے اپنے اپنے گھر کے سب مالک ہیں۔ اپنے گھر جوئی بھی شیر ہے۔
 اپنے اختیار میں نہ ہونا۔ مجبور ہونا۔ اپنے جس میں نہ ہونا۔
 اپنے اللہ سے پائے۔ (بددعا) خدا رکھے۔ خدا اس کی سزا دے۔

اپنے منہ سے دھتانا۔ [مثل] اپنی تعریف آپ کرنا۔ اپنی امارت اور فضل و کمال کا دعویٰ کرنا۔ اپنے منہ میاں مٹھو۔ اپنے منہ سے کہنا۔ (محاورہ) خود کہنا۔ نثر م کو بالائے طاق رکھ کر کہنا (۲) منہ پھوڑ کر کہنا۔

اپنے منہ میاں مٹھو مٹھا [مثل] اپنی تعریف خود کرنا۔ اپنی بڑائی آپ کرنا۔ اپنے فوٹی سروں کے آگے نہ پھینکو۔ (محاورہ) بے قدروں کو اپنا ہنر نہ سکھاؤ۔

اپنے میں۔ اپنے بدن میں۔ اپنے جسم میں۔

اپنے میں آنا۔ (محاورہ) ہوش میں آنا۔

اپنے نام کا ایک ہی ٹکنا۔ بے مثل ہونا۔

اپنے نام کا ایک ہے۔ (محاورہ) آفت کا ریکال ہے۔ بڑا جندی ہے۔

اپنے نام کا پاس ہے۔ (محاورہ) اپنی عزت کا لحاظ ہے۔

اپنے نزدیک۔ (محاورہ) اپنے حساب میں۔ اپنی دانست میں۔

اپنے نصیبوں کو رونا۔ (محاورہ) اپنی بد نصیبی کی شکایت کرنا۔ بُری تقدیر کا ٹھٹھہ کرنا۔

اپنے نین گنوا کے در در مانگے ٹھیک۔ [مثل] اپنی دولت برباد کر کے دوسروں کے آگے لا ٹھٹھہ پھیلانا۔ اپنی چیز کھد کر دوسروں کے ٹھٹھے مانگتے پھرنا۔

اپنے نینا مجھے دے تو گھوم پھر کر دیکھ۔ [مثل] اپنی آنکھیں میرے حوالے کر اور دیکھیں مازنا پھر (۲) دوسرے کا نقصان کر کے اپنے فائدے چاہنا۔

اپنے وقت کا (ارسطو) انڈاطون ہے۔ بڑا دانہ ہے۔ بہت عقلمند ہے۔ اپنے وقت کا حاکم ہے۔

اپنے وقت کا لال کھجڑا۔ [مثل] بے وقوف مگر عقل کا دعویٰ۔

اپنے ہاتھ کا۔ (۱) اپنے آپ کو نہنے کا (۲) اپنے ہاتھ کا لکھا، بنایا یا کیا ہوا۔

اپنے ہاتھ کٹا لینا۔ (محاورہ) قول یا تحریر دے کر بے بس ہو جانا۔

اپنے ہاتھ کرنا۔ (محاورہ) قبضے میں کرنا۔ موہ لینا۔

اپنے ہاتھ کے بل بل جالیئے جیسا من ہو دیا کھائیئے۔ [مثل] جب کوئی کام اپنے ہاتھ سے بن رہے تو اس وقت غمزہ کہتے ہیں۔

اپنے ہاتھ ہے۔ اپنے اختیار میں ہے۔ اپنے اختیار سے ہے۔

اپنے ہاتھوں۔ اپنے آپ۔ بالا راہ۔ اپنے ہی فھلوں سے۔ آپ سے۔ دیرہ ددانستہ۔

اپنے ہاتھوں اپنی قبر کھودنا۔ کنواں کھودنا۔ کانٹے بونا۔ (محاورہ) اپنی موت کا آپ سامان کرنا۔ خود مصیبت میں پھینسا۔ خود برباد ہونا خود بلا میں گرفتار ہونا۔

اپنے ہاتھوں خراب ہونا۔ اپنی تباہی خود لانا۔

اپنے ہاتھوں کانٹے بونا۔ اپنی بربادی کے سامان خود پیدا کرنا۔

اپنے ہی ٹنگ رکھنا۔ دوسرے سے نہ کہنا۔ اپنے ہی میں رکھنا۔

اپنے کو گھا لکھو لا اور کی بار کو ٹال مٹولا۔ [مثل] اپنی غرض کا بہت خیال رکھنا اور کھل مل جانا اور دوسرے کے کام کے وقت ٹال مٹول کرنا۔

اپنے کے کا ہے (محاورہ) بڑا ضدی ہے جو جی میں آتا ہے وہی کرنا ہے۔ اپنے کیے پر چھٹانا۔ (محاورہ) خود وہی کوئی فعل کر کے پشیمان ہونا۔

اپنے کیے کا علاج نہیں۔ اپنے کئے کا کیا علاج۔ (محاورہ) اپنی کی ہوئی غلطی یا بُرائی کا نتیجہ ٹھیکتا پڑتا ہے۔

اپنے کئے کو پانا۔ اپنے کئے کا مزہ چکھنا۔ (محاورہ) جیسا کرنا ویسا بھرا جزا و سزا حسبِ اعمال ملنا۔

اپنے کئے کو رونا۔ (محاورہ) غلطی کر کے پشیمان ہونا۔

اپنے کئے کی سزا پانا۔ (محاورہ) جیسا کیا ہے اس کے بدلے میں سزا پانا۔ بد فعلی کی سزا پانا۔

اپنے کئے کی لاج ہونا۔ (محاورہ) اپنے قول کا لحاظ ہونا۔

اپنے گریبان میں منہ ڈالنا) ڈال کر دیکھنا۔ (محاورہ) اپنے عیب دیکھنا اپنے کئے پر گردن بھی کرنا

اپنے گھر آئے ہوئے کئے کو نہیں دھنکار تے۔ [مثل] مہمان کیسا ہی کم حیثیت ہو اس سے بُرا بڑا ذہن نہیں کرنا چاہیے۔

اپنے گھر بار کا ہونا۔ (محاورہ) شادی شدہ ہونا۔ بوی بچوں والا ہونا۔

اپنے گھر پر جوئی بھی شیر ہوتی ہے۔ [مثل] اپنے مکان میں ہر ایک لیر ہونا ہے۔ اپنے دروازے پر کتا بھی شیر ہوتا ہے۔

اپنے گھر خوش رہو۔ (محاورہ) ہم سے کچھ تعلق نہیں۔ اپنا کام کرو۔

اپنے گھر سے خوش۔ بے نیاز و خوش حال۔ یعنی۔

اپنے گھر کو آس کس کو بُرا لگتا ہے۔ (محاورہ) آنا ہوا مال سب کو اچھا معلوم ہوتا ہے۔ اپنا نفع کسی کو بُرا معلوم نہیں ہوتا۔

اپنے گھر کی راہ لو۔ (محاورہ) چلے جاؤ۔ جاؤ۔ بے ہو جاؤ۔

اپنے لکھے کو رونا۔ (محاورہ) اپنی قسمت کا ٹھٹھہ کرنا۔

اپنے لکھے تو بیٹھ میں اور کے لکھے تو بیٹھ میں۔ [مثل] اپنی تکلیف کو تکلیف سمجھنا مگر دوسرے کے دکھ کی پروا نہ کرنا۔

اپنے مے بن سو رنگ نہیں ملتا۔ [مثل] اپنی کوشش کے بغیر کامیابی نہیں ہوتی۔ اپنے منہ کے آگے کچھ نہیں سمجھنا۔ [مثل] اپنے فائدے اپنی اہلیاتی خواہش اور اپنی زبان کے ذائقے کے آگے نیک اور بھلاؤ جاؤ۔

نا جانز کی تیز نہیں رہتی۔

اپنے مطلب کا۔ خود غرض۔ مطلبی۔

اپنے مطلب کی کہتا۔ اپنے فائدے کی بات کہنا۔

اپنے مطلب کے ہیں۔ خود غرض ہیں۔ اپنی غرض کے آشنا ہیں۔

اپنے مطلب کے بار۔ غرض آشنا (دیکھیے اپنے گوں کے بار) اپنے من سے جانتے پرانے من کی بات۔ [مثل] اپنی تکلیف اور دکھ سے دوسرے کی تکلیف اور دکھ کو سمجھنا چاہئے۔

اپنے منڈ پر پٹاپٹے مارنا۔ (محاورہ) اپنے کیے پر پشیمان ہونا۔

اپنے منڈ پر جاؤ۔ (محاورہ) اپنی طرف دیکھو۔ اپنی شرافت کا خیال کرو۔

اپنے ہی تن کا پھوڑا سنانا ہے۔ [شل] عزیزوں قومیں ہی سے نکلیت
 پہنچتی ہے۔
 اپنے ہی گھر سے آگ لگی ہے۔ اپنوں نے ہی سنا دبریا کیا ہے۔
 اپوزیشن - (Opposition) (انگ - مٹ) حزب اختلاف -
 مخالف پارٹی -
 اُپھار - اُپھارہ - (اُپھار - اُپھارا) (۱-۵-۱-۵) پیٹ پھولنا -
 اُپھرا - (اُپھرا - را) (۵-صفت) پھولا ہوا۔ معدہ بھرا ہوا۔ غور سے پھولا ہوا۔
 اُپھرانا - (اُپھرا - رانا) (۵-مض) پیٹ بھرنے سے پریشانی اور تکلیف میں ہونا۔
 اُپھر جانا - (اُپھرا - جانا) (۱۱-مض) پیٹ پھولنا۔ اُنکا کھانا کھا لینا کہ
 سانس پھولنے لگے (۲) مغرور ہوجانا۔
 اُپھرتا - (اُپھرتا) (۵-مض) (۱۱) پھولنا۔ ہوا بھرتا۔ نفع ہونا (۲) موٹا ہونا۔ تیار
 ہونا (۳) مغرور ہونا۔ علم ہنر یا دولت پر نازاں ہونا۔
 اُپھیل - (۵-صفت) بے تر وہ درخت جسے پھل نلگے (۲) بانجھ عورت۔
 اُپھین جانا - (اُپھین - جانا) (۵-مض) اُبل جانا۔ جوش آجانا۔
 اُپھینا - (اُپھین - نا) (۵-مض) (۱۱) اُبلنا۔ اُٹھنا۔ آج یا گرمی سے پھین کے
 سافد اوپر اٹھنا (۲) اُمنڈنا۔
 اُپلی - (اُپلی) (۵-صفت) (۱) چمک دار (۲) میان سے باہر نکلی ہوئی شمشیر
 سان پر چھی ہوئی تلوار۔
 اُپیل - (Appeal) (اُپیل - انگ - ۱-۱) ند [پھولے حاکم کے
 فیصلے کے خلاف بڑے حاکم کے پاس درخواست کرنا۔ مترادف۔
 اُپیل سماں ہونا۔ اُپیل کا منظور ہونا۔
 اُپیل (خارج) مسترد ہونا۔ اُپیل کا نام منظور ہونا۔
 اُپیل داخل کرنا۔ اُپیل حاکم بالا کے پاس مقدمہ لے جانا۔
 اُپیل گزار - (Appellant) اُپیل داخل کرنے والا۔
 اُپیل مخالف - ایک دوسرے کے خلاف اُپیل۔
 اُپیل انٹ (Appellant) (اُپلی - لائٹ) (انگ - ۱-۱) اُپیل کرنے والا۔

ا ت

اُت - (س - ۱-۱) مذ [نہایت - از حد۔ بے انتہا۔ حد سے زیادہ - شدید۔
 اُت چل - (ق - صفت) نہایت تیز۔
 اُت کوئل - (۵-۵) مذ (موسیقی) وہ مضر جوشد طر سے دو درجے نیچے ہو۔
 اُت کا پھلنا نہ برسات کی پھلی نہ دھبہ۔ اُت کا پھلنا نہ بولنا اُت کی پھلی
 نہ سچب - [شش] ہر چیز کی زیادتی بُری اور نقصان دہ ہوتی ہے۔
 اُتا - (اُتا) (ت - ۱-۱) مذ [باپ - والد۔ بزرگ۔ پیر۔ شیخ (۲) آقا۔
 آتایک - (۱۱) بزرگ باپ (۲) شاہانہ خطاب - شیراز کے ترک بادشاہوں
 کا لقب۔
 اُتاز ترک - (۱۱) ترکوں کا باپ (۲) غازی مصطفیٰ کمال یا شاہ کا لقب۔
 اُتاپتا - (اُتا - پتا) (۵-۱-۱) مذ [نشانی - علامت - شراخ (۲) موقع عمل۔
 (۳) متعلقات جو پہلی بوجھ میں مدد دیں۔

اُتار - (اُتار) (۵-۱-۱) مذ [اُتارنا - نشیب (۲) رُو (۳) کمی ستمزل گھٹاؤ
 (۴) طغیانی میں کمی (۵) کسی چیز کا اثر ڈال کرنا (۶) صدقہ (۷) جا دو کا ٹوڑ
 (۸) جند - بھانا۔
 اُتار چڑھاؤ - (اُتار - چڑھاؤ) (۱۱) اُدخ شیخ - نشیب و فراز۔ مدو جزر۔ جوار بھالہ۔ بلند ہست (۲)
 کی پستی گھٹاؤ بھٹاؤ (۳) طرح و ذوال - فتح و شکست (۴) چھل فریب جوڑوڑ
 اُتار چڑھاؤ (تانا) (معاورہ) فریب دینا۔ دھوکا دینا۔ دم دینا۔
 اُتار چڑھاؤ کی بانہیں (معاورہ) فریب کی باتیں - چالیں۔
 اُتار لی لونی کیا کرے گا کوئی - [ایشل] بے جاسے کچھ بعد نہیں بنے شرم
 سب کچھ کر سکتا ہے۔
 اُتار لینا - (معاورہ) جگہ دینا پھرنی (۲) ننگا کر دینا چھین لینا۔ لے لینا
 (۳) پھاڑ ڈالنا (۴) نقل کر لینا (۵) کاٹ ڈالنا۔ توڑ ڈالنا (۶) گرنا
 معزول کرنا (۷) گھسنا۔ مٹا دینا۔
 اُتار ہونا - (معاورہ) نشہ اُتارنا۔ کسی چیز کی کمی یا گراؤ کی طرف آنا۔
 اُتارنا - (اُتارنا) (۱-۱) مذ [اُتارنا - ڈوبہ ڈوبنے یا مٹنے کا نام (۲) اُترنے کی جگہ
 پڑاؤ مقام (۳) ندی پار کرنے کی حالت (۴) صدقہ (۵) گھاٹ۔
 اُتارنا اُتارنا - (معاورہ) صدقہ اُتارنا۔
 اُتارنا جانا - (ق) [مارا جانا۔
 اُتارنا ہونا - (معاورہ) قیام ہونا (۲) قریب اُتارنا (۳) قریب کیا جانا (۴)
 دریا کے پار اُتارنا۔ آنا وہ ہونا۔ اُتارنا۔
 اُتارن - اُتارن - (اُتارن) (۵-۱-۱) مذ [اُتارنا - (۱) اُدھی جگہ سے عجمی جگہ لانا (۲) دریا کے پار اُتارنا
 اُتارنا - (اُتارنا) (۵-۱-۱) مذ [اُتارنا - (۱) اُدھی جگہ سے عجمی جگہ لانا (۲) دریا کے پار اُتارنا
 لے جانا (۳) بدل سے لباس مٹا کرنا (۴) نثار کرنا۔ وارنا (۵) چیرہ
 کھینچنا۔ (۶) نقل کرنا (۷) کاٹنا۔ جُدا جُدا کرنا (۸) ٹھہرانا جگہ دینا
 (۹) گرنا۔ ذلیل اور حقیر کرنا (۱۰) معزول کرنا (۱۱) ننگلانا۔ صحت سے نیچے
 اُتارنا (۱۲) نازل کرنا (۱۳) مساکر کرنا۔ ڈھانا (۱۴) اُٹانا۔ اُٹانا (۱۵)
 گھٹانا۔ کم کرنا (۱۶) داخل کرنا۔ پہنچانا (۱۷) پورا کرنا (۱۸) کپڑے وغیرہ
 کے واسطے قطع کرنا (۱۹) تیار کرنا۔ آن چیزوں کے لیے جو کسی چیز پر چڑھا
 کر تیار کی جاتی ہیں (۲۰) کسی عضو کا اس کی پہلی جگہ سے اُٹھارنا (۲۱)
 پیوست کرنا (۲۲) ادا کرنا (۲۳) ذہن نشین کرنا (۲۴) موندنا۔
 اُتارو - (اُتارو) (ق - ۱-۱) مذ [پارے جلنے والا۔ (۲) ماہر۔ حلق
 اُتارے ہوتا۔ (۵-۱-۱) مذ [سواروں کا گھوڑوں سے اتر کر تلواروں سے لڑنا
 متوجہ و مستعد ہونا۔ لڑنے کو اُتار لڑنا۔ تیگھے پڑ جانا (۲) صدقہ اُتارنا۔
 اُتاق - (اُتاق) (ت - ۱-۱) مذ [خیمہ - ٹبرہ - مکان۔ گھر۔ خانہ۔
 اُتاقہ - (اُتاقہ) (ت - ۱-۱) مذ [کھنی - طرہ - بھا کا پر۔
 اُتالی - (اُتالی) (ق - صفت) بے تاب۔ بے چین۔ بیقرار۔
 اُتالیق - (اُتالیق) (ت - ۱-۱) مذ [اُستاد۔ ادب سکھانے والا۔ تریبت
 سکھانے والا۔ سدھانے والا۔
 اُتالیق - (اُتالیق) (ت - ۱-۱) مذ [اُستاد۔ ادب سکھانے والا۔ تریبت
 سکھانے والا۔ سدھانے والا۔
 اُتالیق - (اُتالیق) (ت - ۱-۱) مذ [اُستاد۔ ادب سکھانے والا۔ تریبت
 سکھانے والا۔ سدھانے والا۔
 اُتالیق - (اُتالیق) (ت - ۱-۱) مذ [اُستاد۔ ادب سکھانے والا۔ تریبت
 سکھانے والا۔ سدھانے والا۔

آتا و لادھنا مروج کی نمانت۔ [مثل] بہت ہی جلدی کرنے والا (انا ٹی آدمی)۔
 آتا و لاسا باولا۔ [مثل] بے سوچے سمجھے جلدی سے کام کرنے والا (دیوانہ ہونا ہے
 اُتا و لٹی)۔ (اُت۔ تا۔ و۔ لٹی)۔ (۱۔ ہ۔ مٹ)۔ (۱) جلدی جھلت۔ لکھنڈ بازی (۲) چیلن۔ (۲)
 (۳) آتا و لٹی تانیت۔

اُتائی۔ (۱۔ تا۔ ای)۔ (ہ۔ صفت) بے اُستاد جس نے کسی فن یا علم کو باقاعدہ حاصل
 نہ کیا ہو یا وہ اس کا آبائی پیشہ نہ ہو۔
 اُتسار۔ (اُت۔ س۔ ت۔ باع)۔ (ع۔ ۱۔ ہ۔ مذ) پیروی کرنا۔ تقلید (۲) اطاعت فرمانبرداری۔
 اُتچن۔ (اُت۔ چ۔ ن)۔ (۱۔ ہ۔ مٹ)۔ (۱) پیدا نش۔ نسل۔ کنبہ (۲) پیداوار۔ مول
 شدہ معاملہ۔

اُتخاد۔ (اُت۔ ت۔ ح۔ اد)۔ (ع۔ ۱۔ ہ۔ مذ)۔ (۱) بیگانگت۔ ملاپ۔ دوستی۔ ایک۔
 (۲) محبت۔ اخلاص (۳) میل جول (۴) باہمی موافقت
 اُتخادی۔ (اُت۔ تے۔ جلدی)۔ (ع۔ صفت و ا۔ مذ)۔ (۱) اتحاد سے متعلق (۲) سنی
 رفیق۔ دوست۔ حلیف (۳) باہمی معاہدہ سے وابستہ معاہدہ معاہدین۔
 اُتخاف۔ (اُت۔ ت۔ ح۔ اف)۔ (ع۔ ۱۔ ہ۔ مذ) تخفہ دینا۔ ارمان۔ سوغات۔
 اُتر۔ (اُت۔ تر)۔ (س۔ ۱۔ ہ۔ مذ)۔ (۱) شمال (۲) جواب (۳) ایک و یک گینت۔
 اُترآؤ کہ دھن، وہی کرم کے چھن۔ [مثیل] جہاں بھی جاؤ قسمت پلنے
 ساتھ ہے۔

اُتر میا نسا۔ ویدانت فلسفے کی ایک مشہور کتاب
 اُتر۔ (اُت۔ نا)۔ (ہ۔ صفت)۔ (۱) اُتر ہوا۔ معزول (۲) بہن کو اُتر ہوا لباس۔
 اُتر اسٹخنہ مروک نام [مثیل] عمدے سے علیحدہ ہونے پر عزت نہیں رہتی۔
 اُتر گھائی ہوا مائی۔ [مثیل] جو چیز کھا کر صحت سے اتاری جائے وہ مٹی کے
 برابر ہے۔

اُتر ہوا۔ بٹھا ہوا (۲) باسی۔ زوال پذیر۔ بوسیدہ۔
 اُتر آنا۔ (اُتر۔ آنا)۔ (ہ۔ صفت)۔ (۱) آنا ہونا (۲) اوپر سے نیچے آنا۔
 اُترانا۔ (اُت۔ رانا)۔ (ہ۔ صفت) گھنڈ کرنا۔ غرور کرنا۔ نازاں ہونا۔
 اُترانا۔ (اُت۔ رانا)۔ (ہ۔ صفت) پانی کے اوپر آنا۔ پانی کی سطح پر تیرنا۔
 اُتر اہٹ۔ (اُت۔ ر۔ ہٹ)۔ (ہ۔ ۱۔ ہ۔ مٹ) گھنڈ۔ غرور۔ زنجیر۔
 اُتر آؤ۔ (اُت۔ را۔ او۔ واؤ جمول)۔ (ہ۔ ۱۔ ہ۔ مذ) آنا۔ ڈھال۔
 اُترائی۔ (اُت۔ را۔ ای)۔ (ہ۔ ۱۔ ہ۔ مٹ)۔ (۱) نشیب (۲) دریا سے پار چلنے
 کا حصول (۳) پہاڑ سے اُترنے کا کراہ (۴) بدلہ۔ احسان کا بدلہ (ق)
 اُتر لے پھرنا۔ (اُت۔ ر۔ لے۔ پھرنا)۔ (ہ۔ صفت) اُٹھنا۔ ناز کرتے پھرنا۔ گھنڈ کرنا۔
 اُتر پڑنا۔ (ہ۔ صفت)۔ (۱) کسی کام یا کسی صیبت پر آمادہ ہو جانا (۲) پھرنا
 پھر جانا۔

اُتر تابانی۔ دریا یا ندی کا پانی کم ہو جانا۔

اُترتا چاند [ہ۔ صفت] آخر ماہ۔ زوال ماہ۔ اندھیرا باکھ۔ مینے کا آخری
 حصہ۔

اُترتی۔ (اُت۔ تری)۔ (ہ۔ صفت) نیچے آتی ہوئی۔ گرتی ہوئی۔ ڈھلنی ہوئی۔

اُترتی برسات۔ نکلنے برسات۔ برسات کا آخری زمانہ۔
 اُترتی ندی کنارے ڈھائے۔ [مثل] انسان کا جب کوئی بس نہیں
 چلتا تو غریب کو ستاتا ہے۔

اُتر جانا۔ (اُت۔ تر۔ جانا)۔ (ہ۔ صفت)۔ (۱) اوپر سے نیچے آ جانا۔ (۲) ڈبلا
 ہو جانا (۳) ناپسند ہو جانا (۴) خراب ہو جانا۔

اُتر سوں۔ (اُت۔ تر۔ سوں)۔ (ہ۔ ۱۔ ہ۔ مذ)۔ (۱) آنے والے پرسوں کے آگے کا دن (۲)
 (۲) گزرتے ہوئے پرسوں کی پھلے کا دن۔

اُتر کے۔ (اُت۔ کے)۔ (ہ۔ کھٹ کے)۔ کم نیچے۔
 اُتر کئی لوٹی پھر کیا کمرے کا کوئی۔ [مثل] جب لے شرمی اغنیاء کی تو پھر
 کسی کا کیا ڈر ہے۔ بے لحاظ آدمی کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔

اُترن۔ (اُت۔ رن)۔ (ہ۔ ۱۔ ہ۔ مذ)۔ (۱) پھٹے ہوئے پڑنے پر ٹرے۔ پُرانا لباس۔
 (۲) کلڑی یا پیچڑی پڑی جو دروازے میں لگائی جاتی ہے۔

اُترن پترن۔ اُتر سے ہونے پڑنے پر ٹرے۔ پُرانا لباس۔

اُترنا۔ (اُت۔ ترنا)۔ (ہ۔ صفت)۔ (۱) اوپر سے نیچے آنا (۲) گھٹنا۔ متزلزل ہونا۔ گھٹاؤ
 ہونا (۳) بدن میں جوڑ، نسل یا بڑی کا پتی جگہ سے ہٹ جانا (۴) آواز کا جھپا
 پڑنا یا بگڑنا (۵) کسی اثر کو دھک کرنا مثلاً غصہ اُترنا۔ نشہ اُترنا۔ بیمار اُترنا۔

(۶) کسی سال، ماہ یا موسم کا ختم ہونا (۷) موت سے تیار ہونے والی کوئی
 چیز مکمل ہونا مثلاً عمرزہ اُترنا۔ عُقان اُترنا۔ بنیان اُترنا (۸) ایسی چیز کا تیار
 ہونا جو خرد وغیرہ پر تیار کی جائے (۹) نرخ کا کم ہونا (۱۰) ڈیرہ کرنا۔ ٹھہرا
 (۱۱) گھسنا۔ داخل ہونا (۱۲) بچوں کا مرجانا (۱۳) پھر آنا۔ غصہ نکالنا (۱۴)
 پھلوں کا پھلنے پر توڑا جانا (۱۵) گرم پانی یا بھکے میں کسی چیز کا تیار کرنا۔

(۱۶) گلی یا بیٹی چیز کا اُٹک ہونا۔ صفائی کے ساتھ گھٹا اُدھرتا (۱۷) سلی ہوئی
 چیز کا اُٹک ہونا (۱۸) نول میں ٹھہرنا (۱۹) کسی ساز کی کسی کا ڈھبلا ہو
 جانا جس سے اس کی آواز ڈھیلی ہونے لگے (۲۰) جھم لینا (۲۱) سانسے

آنا ظاہر ہونا (۲۲) کشتی یا لڑائی کے لیے اُٹھانے یا میدان میں آنا (۲۳)
 پار ہونا (۲۴) مشط ج میں کسی پیادے کا کوئی بڑا حصہ بن جانا (۲۵)
 وصول ہونا (۲۶) جماعت سے فارغ ہونا (۲۷) آگ پر چڑھائی جلنے
 والی چیز کا یک کر تیار ہونا (صاحب) اُتر کر من سے اُترنا۔ چہرہ اُترنا (۲۸)
 سوار ہونا اور چڑھنا کی ضد (۲۹) بد رنگ ہونا۔ ماند پڑنا (۳۰) پورا ہونا۔
 بیابان ہونا (۳۱) عکس کھینچنا۔ نقل آنا۔

اُترنگ۔ (اُت۔ رنگ)۔ (ہ۔ ۱۔ ہ۔ مذ) وہ لکڑی جو درد اڑنے کی اُپر کی طرف
 چوکھٹ میں لگائی جاتی ہے۔ اُترنگا بیس ہے۔

اُتر وانا۔ (اُت۔ تر۔ وانا)۔ (ہ۔ صفت) کسی دوسرے سے کوئی چیز اُتارنے
 میں مدد دینا۔

اُتروائی۔ (اُت۔ مٹ) اُتارنے کی اجرت (۲) استقبال۔

اُتری پھیل۔ (اُت۔ ری۔ پھیل)۔ (ہ۔ ۱۔ ہ۔ مذ) زرخشا۔ بڑ۔ بہیرا اور اُٹک
 ٹرکت۔

اُتری جوانی۔ (۱۔ مٹ) ڈھلا ہوا شباب۔

اُتری کجان۔ وہ مکان جس کا چڑچڑھا جھانڈ ہو۔

اُتری ہوئی۔ (اُت۔ ری۔ ہوئی)۔ (ہ۔ صفت) چھوٹی ہوئی۔ استغاث کی ہوئی۔

اُتری ہوئی یا پوش۔ (۱) پُرانا ہوتا (۲) بے عزت۔ حقیر آدمی یا محورت
 (۳) نظروں سے گری ہوئی بے تداوم بے حقیقت چیز (۴) چھوٹی
 ہوئی محورت۔

افضل ہے۔ اس کے بعد تجارت اور نوکری تو جیکب مانگنے کے برابر ہے۔

اتم گانا مدظم بجانا۔ گانے کا درجہ اصل ہے اس کے بعد بجانے کا۔
اتمام۔ (آٹ۔ نام) [ع۔ ۱۔ مذ] (۱) تمام کرنا۔ انجام کو پہنچانا (۲) کمال تکمیل
اتمامِ محنت۔ (۱) محنت کا پورا ہونا۔ فیصلہ کن بات۔ آخری دلیل معاط
طے کرنا۔ جھگڑا مٹانا (۲) انتہائی کوشش کرنا۔

انتہا۔ (آٹ۔ نا) [و۔ صفت] (۱) اس قدر۔ اس ختم کا۔ (۲) اتنا اس درجہ
مہاں تک۔ اس قابل (۳) بہت زیادہ (۴) بہت کم۔

انتہا بھر اکہ جھپک گیا۔ [آٹش] (۱) زیادہ جانت کرنا۔ بہت رشوت کھانا بھرنا
چھٹنا شکل ہو (۲) اتنا زیادہ مذاق کرنا جو برداشت سے باہر ہو (۳) اتنا
کھانا جو ہضم نہ ہو سکے (۴) اتنا نفع لینا جس سے بدنامی ہو۔
انتہا پیکار باسی تھکا۔ [مش] (۱) کھانا اتنا زیادہ پیکار یا کہ باسی ہو کر خراب ہو گیا
(۲) بات اتنی بڑھی کہ بڑی فصاحت ہوئی۔

انتہا جھوٹ بولو جتنا آٹے میں نمک [آٹش] جھوٹ اتنا بولو کہ نہ بھسکے
انتہا سا۔ (اصف) فقور سا۔ ذرا سا (۲) چھوٹا سا۔ ننھا سا۔
انتہا سارا۔ (اصف) بہت سا۔ بہت سارا۔

انتہا سافنتہ۔ اتنی سی فتنی (۱) مکار بچہ یا بچی (۲) چھوٹی سی یا معمولی سی بات
جس کے باعث کوئی جھگڑا ہو۔

انتہا سا کام۔ فقور سا کام۔
انتہا سا منہ نکل آیا۔ (۱) چہرہ اڑ گیا۔ نہایت بولا ہو گیا (۲) شرمندہ ہو گیا
انتہا کھائے جتنا پیچھے۔ [آٹش] [لوٹ نہ چمانی چاہیے۔ خیانت یا رشوت
اتنی نہ ہو جس کا چھپانا مشکل ہو۔

انتہا ہے۔ (معاورہ) اتنی بات ہے۔ یہ پیش نظر ہے۔
انتہے سے اتنا کر دینا۔ (۵) چھوٹے سے بڑا کر دینا۔ بڑھانا۔ بڑا کرنا۔
انتہے سے اتنا ہونا (۱) چھوٹے سے بڑا ہونا (۲) غریب سے مال دار ہونا۔
انتہے کی بڑھیا نہیں جتنے کا لنگکا چھٹ گیا۔ [مش] [انتہا فائدہ نہ ہونا
جتنا نقصان ہو گیا۔

انتہے میں۔ اس حد میں۔ اس مقدار میں۔ ناگاہ۔ اتفاق سے۔
انتہا۔ (آٹ۔ تا) [و۔ صفت] اس قدر۔ اس درجہ۔ اس حد تک۔
انتہی۔ (آٹ۔ نی) [و۔ صفت] اس قدر۔

انتہی سی جان گز بھری زبان۔ [آٹش] [چھوٹا منہ بڑی بات۔ چھوٹی عمر میں
زبان درازی۔

انتہی عقل بھی اجیرن ہوتی ہے۔ [آٹش] [زیادہ عقل بھی بعض اوقات
نقصان کا باعث ہوتی ہے۔

انتہی ہی تھی۔ اسی قدر تھی۔
انتہی ہی لکھی تھی۔ اتنی ہی عمر تھی۔

انتہی۔ (آٹ۔ نی) [و۔ صفت] اس قدر۔
آنو۔ (آٹ۔ نو) [ف۔ ۱۔ مذ] (۱) وہ آکر جس پر نقش کرتے اور پیل بوٹے
بناتے ہیں (۲) کشیدہ کاری۔ پیل بوٹے۔

آنو آنو کرنا۔ مارنے مارنے کھال اوھیر دینا۔ ہرزے اڑانا۔

آنسو۔ (آٹ۔ سو) [س۔ ۱۔ مذ] (۱) خوشی کا حام مظاہرہ۔ (۲) تموارِ حشر۔ (۳)
نقصد۔ ناراضی۔ بے مہربانی۔

آنصاف۔ (آٹ۔ صاف) [ع۔ ۱۔ مذ] [صفت رکھنا تعریف کیا جانا۔
آنصال۔ (آٹ۔ صال) [ع۔ ۱۔ مذ] [طاب میل۔ قریب۔ نزدیکی۔ کسی کام کا
لگانا ہونا۔ (۲) اصول حدیث کسی حدیث یا روایت کا سلسلہ غیر منقطع
ہونا یا سلسلہ سند کے راویوں کا نام بنام ذکر کرنا۔

آنصالِ حقیقی۔ بالکل ایک جہاں ہونا۔ دوئی مٹا۔ ٹوٹ کر لینا (نصوف) [و۔ اصل
باللہ ہونا۔

آنفاق۔ (آٹ۔ فاق) [ع۔ ۱۔ مذ] [موافقت۔ میل جول۔ اتحاد۔ محبت
دوستی (۲) اچانک۔ دفعہ۔ اچانکی۔ جمع: آنفاقات۔

آنفاق بڑھنا۔ اتحاد زیادہ ہونا۔ ایکا بڑھنا۔ محبت زیادہ ہونا۔
آنفاق بڑنا۔ (معاورہ) موقع بڑنا۔ موقع ملنا۔

آنفاق ختمہ۔ اچھا موقع۔ مبارک موقع۔
آنفاق رلنے۔ رلنے کا متوقع ہونا۔ باہمی ہم خیالی۔ رضامندی۔

آنفاق سے۔ (۱) گاہے گاہے کسی موقع پر کبھی بھی (۲) بالائے اتفاق (۳) اچانک
آنفاق کرنا۔ ایک ہو جانا۔ شریک رلنے ہونا متفق الیے ہونا۔ مال لینا۔

آنفاق کی بات۔ اتفاقیہ الفاظ۔
آنفاق ہونا۔ (معاورہ) ایک ہونا متفق الیے ہونا (۲) موقع بڑنا۔ موقع ملنا۔

آنفاقا۔ (آٹ۔ فاق) [ع۔ ۱۔ مذ] [تابع فعل] اچانک۔ ناگاہ۔ پچانک۔
آنفاقات۔ (آٹ۔ فاق) [ع۔ ۱۔ مذ] [آنفاق کی جمع۔ واقعات۔
حوادث۔ مسامحت (۲) غیر متوقع۔ ناگہانی۔

آنفاتی۔ (آٹ۔ فاتی) [ع۔ صفت] ایک دم۔ اچانک۔ وہ بات جو
اتفاق سے ہو جائے۔

آنفاتی رخصت۔ (۱) غیر متوقع ضرورت پر لی جانے والی چھٹی
(انگ) (Casual Leave)

آنفاتی شگورہ۔ (۱) وہ چھپدیا شگورہ جو خود بخود زمین سے اُگتا ہے (۲)
خود رو کھاس کی مانند۔

آنفاقیہ۔ (آٹ۔ فاق) [ع۔ صفت] اچانک۔ اتفاق سے۔
آنفاقا۔ (آٹ۔ فاق) [ع۔ ۱۔ مذ] [پرہیزگاری۔ گناہ سے بچنا۔ پرہیزگاری
تقویٰ زہد۔

آنقیاب۔ (آٹ۔ بی) [ع۔ ۱۔ مذ] [تقی کی جمع۔ پرہیزگار لوگ۔
آنکا۔ (آٹ۔ کا) [ع۔ ۱۔ مذ] (۱) تیکہ۔ (۲) بھروسہ کرنا۔
آنکھ۔ (آٹ۔ کھ) [ت۔ ۱۔ مذ] [آٹا یا دانی کا شوہر۔

آنکلاف۔ (آٹ۔ لاف) [ع۔ ۱۔ مذ] [برابری۔ صلح کرنا۔ تلف کرنا۔
آنم۔ (آٹ۔ تم) [س۔ صفت] (۱) سب سے اچھا۔ سب سے بڑا۔
سب سے بھلا (۲) کامل۔ پورا۔ تمام تر۔

آنم سے آنم لے اور لے نچ سے نچ لے۔ پانی سے پانی لے اور لے کچ سے
کچ۔ [مش] [شریف تر لطف سے اور ذلیل رذیلوں سے ملنے ہیں جو جیسا ہوتا
آنم کھینچے ویسوں سے ہی ملتا ہے۔

آنم کھینچنی مدظم بیو یا رکھدیا کر ہی بھیک دوار۔ [مش] [کاشتکاری سے
آنم کھینچنی مدظم بیو یا رکھدیا کر ہی بھیک دوار۔ [مش] [کاشتکاری سے

اٹا راپٹا را - (اٹا) ساز و سامان - اسباب -
 اٹارنی - (اٹا - ری) (ہ - ۱ - مٹ) (۱) بالاخانہ بھیت کے اوپر کا مکان
 (۲) بلند مکان -
 اٹالالا - (اٹا - لالا) (ہ - ۱ - مٹ) (۱) ڈھیر - انار - اٹم (۲) سامان - اٹاٹہ -
 (۳) فضول اسباب - نیکادور ناکارہ اسباب (۳) کاٹھ کباڑ -
 اٹرنی - اٹارنی - (Attorney) (۱ - ٹرنی) (انگ - ۱ - مٹ) ایسا
 وکیل جو صرف مقدمہ مرتب کر کے برسرِ ٹراویکل کوٹے اور خود بحث نہ کرے -
 اٹامک انرجی (Atomic Energy) (انگ) ایٹمی توانائی -
 وہ قوت جو ایٹم سے حاصل کی جاتی ہے -
 اٹمک - (اٹمک) (ہ - ۱ - مٹ) (۱) روک - رکاوٹ - اڑپن - الجھن - جھجک
 اٹکاؤ (۲) دریائے سندھ پر ایک مقام -
 اٹک کر رہ جانا - رکاوٹ سے آگے نہ بڑھنا - ٹھہر جانا - رک جانا -
 اٹک مٹک ۱۱ - مٹ) ناز و نخرا - غرور و تکبر
 اٹکا بیا سودا کرے - (شل) جب بیک کوئی غرض نہ ہو - انسان کا نام نہیں
 کرتا - انسان مجبور ہو کر کام کرتا ہے -
 اٹکا کھنا - (مادہ) لٹکائے رکھنا - لیت و دل میں ڈالنا -
 اٹکانا - (اٹ - کانا) (ہ - مٹ) (۱) روکنا - ٹھہرانا (۲) پھینکانا - اٹھانا -
 ڈال رکھنا (۳) ٹھوڑی دیر کے لیے ہینا - ذرا کی ذرا لگنے میں ڈالنا - اٹھانا
 (۴) لگانا - بھروسہ کرنا - مشغول کرنا -
 اٹکاؤ - (اٹ - کاؤ) (ہ - ۱ - مٹ) (۱) روک - رکاوٹ - مزاحمت - دیر - التوا
 (۲) تعلق - وابستگی -

اٹو ساز - اٹو کرنے والا - کپڑے پر نقش دیکھ بنانے والا -
 اٹو کرنے جیلنا - من گھڑی کو قدم رکھنا - آہستہ آہستہ چلنا - جیسے کپڑے پر سبیل بوٹے
 بننے کی سٹری چل رہی ہے -
 اٹو کرنا - کپڑے پر پھول کا ڈھنسا - (۲) کھال اور پربنا - زخمی کرنا (۳) نقش و نگار بنانا -
 اٹو کش - اٹو کر - اٹو کا کام کرنے والا -
 اٹوار - (اٹ - وار) (ہ - ۱ - مٹ) ہفتہ اور پیر کے درمیان کا دن - ایک شنبہ -
 اٹھاس - (اٹ - ہاس) (س - ۱ - مٹ) (۱) تاریخ - حکایت - سعایت (۲) بیان
 نقتہ (۳) تابوچی نظم -
 اٹھام - (اٹ - مٹ) (ہ - ۱ - مٹ) (۱) نعمت - الزام - بہتان - شک و شبہ -
 دوش (۲) نعمت لگانا - الزام لگانا - جمع اٹھانا -
 اٹھا دینا - اٹھام رکھنا - اٹھام لگانا - نعمت لگانا - عیب دہنا - بہتان لگانا -
 اٹھا - (اٹ - ہٹاؤ) (س - صفت) جس کی تھاہ نہ ہو - جس کی گہرائی کا پتہ نہ چلے
 بہت ہی گہرا -
 اٹھک - (اٹ - ٹھک) (ہ - صفت) نہ ٹھکنے والا - بڑا محنتی -
 اٹھل - اٹھل - اٹھلا - اٹھل - اٹھل - اٹھل - اٹھل - (ہ - صفت) (۱) کم گہرا
 (۲) چھوڑا (۳) چل خور پیٹ کا ہلکا (۴) (۱ - مٹ) کم گہرا برتن -
 اٹھل پھیل - اٹ پٹ - اٹ پٹ - اٹ پٹ - اٹ پٹ - اٹ پٹ - (۲) متلائی ہوئی طبیعت -
 اٹھل پھیل کرنا - اٹ پٹ کرنا - اٹ پٹ کرنا - بے ترتیب کرنا -
 اٹھل پھیل ہونا - اٹ پٹ ہونا -
 اٹھلا - (اٹ - ٹھلا) (ہ - مٹ) (۱) ڈنگانا - ڈانواں ڈول ہونا (۲) اٹ پٹ
 ہونا - نیچے اور ہونا (۳) پانی کا کم ہونا -
 اٹھوا - (اٹھ - وا) (س) یعنی - یا - علاوہ - سوا - بھی -
 اٹے - (ق) اتنے ہی - اس قدر -
 اٹیا چار - (اٹ - تیا چار) (س - مٹ) (۱) مقررہ فرائض کی عدم پابندی (۲)
 خدشی اور اخلاقی باتوں کی حقیر (۳) نظم - زیادتی -

ا - ٹ

اٹکاؤ ہونا - رکاوٹ یا مزاحمت کرنا -
 اٹکل - (اٹ - کل) (ہ - ۱ - مٹ) (۱) اندازہ - قیاس - تخمینہ (۲) سلیقہ
 مشورہ قدرتی صلاحیت - تمیز (۳) پرکھ - شناخت -
 اٹکل باز - نازنے والا - قیاس کرنے والا - اندازہ کرنے والا - جھانپنے والا -
 اٹکل پتو - خیالی قیاسی - اوٹ پٹانگ - لہذا اندازے کے لیے خزنہ -
 اٹکل چوڑی (مقرر) مقام - اوٹ پٹانگ - بے سوچی بات - سادہ جہوائی
 اٹکل سے - انداز سے -
 اٹکلا کرنا - اندازہ کرنا - تخمینہ کرنا -
 اٹکلنا - (اٹ - کلنا) (ہ - مٹ) (۱) اندازہ کرنا - پرکھنا - اٹکنا -
 اٹکنا - (اٹکنا) (ہ - مٹ) (۱) روکنا - ٹھہرنا (۲) پھینکانا - اٹھانا -
 کرنا (۳) لٹکانا - اٹھانا -
 اٹکن پٹکن - (اٹ - پٹکن) (ہ - مٹ) (۱) چھوٹے بچوں کا ایک کھیل
 میں کئی لڑکے اپنے دو (۲) ہاتھوں کی انگلیوں کو زمین پر ٹیک کر بیٹھ جاتے
 ہیں - ایک لڑکا سب کے بچوں پر اٹکن پٹکن کر رکھتا ہوتا ہے کہ کتنا جاتا ہے -
 فتن - جھگڑا - وہی پٹکن - اٹکا بھولنے - بھلا بھولنے - سادہ دماغ کرنا
 بھولنے - بھول بھول کی باتیں - باہلگے گنگا - لائے سات - پاباں -
 یا - پالی بھوٹ گئی - نیولے کی ٹانگ ڈوٹ گئی - جس لڑکے پر آخری
 لفظ پڑتا ہے - اس سے پوچھتا ہے تو کھنڈلے کا یا بھری - اگر وہ
 کھنڈلے کا ہے تو اس کا ہاتھ اٹھا کر اس کے منہ پر رکھتا ہے اور

اٹ - (۱) مٹ) میل چیکٹ رنگ (۲) جھگڑا (۳) گردوغبار
 اٹ جانا - (۱) بھرجانا (۲) جمع جانا (۳) مٹی گوا اور دھوئیں کا کسی چیز پر بیٹھ جانا
 (۴) بند ہو جانا -
 اٹ مٹ - (۱) مٹ) بے تکی - اٹھی سیدھی (۲) سازش - جوڑ توڑ -
 اٹا - (اٹ - ٹا) (س - ۱ - مٹ) (۱) آداری - بالاخانہ - کوٹھا - گھر کے اوپر کی کوٹھری
 یا بھیت (۲) اٹالالا - ڈھیر -
 اٹا اٹ - اٹاٹ - (اٹ - اٹ) (اٹ - صفت) اور تک بھرا ہوا - بھر توڑ -
 اٹا ٹوٹ - (اٹا - ٹوٹ) (س - صفت) بالکل - ایک دم - تمام کا تمام -
 اٹیچی - (اٹاشی) (Attache) (اٹا - چی) (انگ - ۱ - مٹ) (۱) شامل
 ملا ہوا (۲) سفارت خانے کا عہدہ دار - جو سفیر سے وابستہ ہو -
 اٹیچی کیس - (Attache Case) (انگ - مٹ) ہاتھ میں کپڑے کا
 چھوٹا سا صندوقچہ -

کتاب ہے۔ تیری ماں کا پیٹ ٹھنڈا۔ اگر وہ کتاب ہے پھری تو کتاب ہے تیری ماں تیری۔
 لیکن لیکن کھینڈنا۔ (بھانڈا) بے کار شغل اور فضول کام کرنا۔
 کھیلنا۔ (اٹ۔ کھے۔ لی۔) [۱-۵-مٹ] (۱) خرام ناز (۲) شوخی۔ طراری پھیلنا
 چھیلنا۔
 کھیلنا۔ (۱) مستانہ چال۔ معشوقانہ چال۔ خراماں خراماں چلنا (۲) شوخی
 بھری ہوئی چال۔ خرام ناز۔
 کھیلنا کرنا۔ ناز و غمزہ کرنا۔ اٹھاپنے کی حرکتیں کرنا۔ جھوم کر چلنا۔ شوخیانہ کھانا
 کھینڈنا سے چلنا۔ ناز سے چلنا۔ اڑا کر چلنا۔ خراماں خراماں چلنا۔
 اٹھی رہنا۔ (اٹ۔ کی۔ رہ۔ نا۔) [۵-مٹ] کام بند ہونا۔ حاجت روا نہ ہونا۔
 اٹل۔ (اٹ۔ ل۔) [۵-مٹ] (۱) نہ ٹھنڈے والا۔ ناگزیر۔ قائم۔ لازوال (۲)
 مست۔ بے پروا۔
 اٹل ہونا۔ چھٹکا۔ سیر ہونا۔ پیٹ بھر جانا۔ نیت بھر جانا۔
 اٹلس۔ (Atlas) (اٹ۔ لس) [انگ۔ ۱-مٹ] ملکوں کے نقشوں
 کی کتاب۔
 اٹلانٹک (Atlantic) (اٹ۔ نٹ۔) (۱) بحر اوقیانوس۔
 اٹم۔ (اٹ۔ ٹم) [۵-۱-مٹ] تودہ۔ ڈھیر۔ انبار۔
 اٹم ہونا۔ اٹانگنا۔ ڈھیر لگنا (ق)
 اٹمیر۔ (اٹ۔ م۔ بر) [س۔ ۱-مٹ] ڈھیر۔ انبار۔
 اٹنا۔ (اٹ۔ مٹ) بھر جانا۔ پُر ہونا۔ گرد و غبار سے آلودہ ہونا۔ جمع ہونا۔ جمع جانا۔
 اٹنگ۔ (اٹ۔ نگ) [۵-مٹ] وہ چیز جو پھنسنے میں آجیا یا چھوٹا ہو۔
 اٹنگا۔ (اٹ۔ ٹن۔ گا) [۵-مٹ] اٹانگوں سے آونچا۔ بد قطع۔ ٹخنوں سے آونچا
 تڈ سے چھوٹا کپڑا۔
 اٹنگن۔ (اٹ۔ ٹن۔ گن) [۵-۱-مٹ] ایک غار دار پودا جس کی تکیاں چھو جانے سے خارش
 ہونے لگتی ہے۔ اس کے بیج دو آؤں میں استعمال ہوتے ہیں۔
 اٹوٹا کھٹوٹا۔ (اٹ۔ و۔ ٹی۔ و۔ ٹی) [۵-۱-مٹ] (۱) کھٹ کھٹوٹا
 (۲) اور صاف چھوٹا۔ بد بھنا ہوا۔
 اٹوٹا کھٹوٹا کے کر پڑنا۔ سوگ منانا۔ غصے یا غم کے باعث چار پائی پر
 ایک پڑے رہنا۔
 اٹوٹ۔ (اٹ۔ ٹوٹ) [۵-مٹ] (۱) نہ ٹوٹنے والا۔ مضبوط جو ٹوٹ نہ سکے
 (۲) لگاتار مسلسل۔
 اٹوک۔ (اٹ۔ ٹوک) [۵-مٹ] بلا روک ٹوک۔
 اٹھ آنا۔ (اٹھ۔ آنا) ایک مکان سے دوسرے مکان میں جا کر رہنا۔
 اٹھ کر پانی نہ پینا (اٹھ۔ آنا) سست اور کاہل ہونا۔
 اٹھ۔ (اٹھ۔) [۵-مٹ] اٹھ۔
 اٹھ پینا۔ پتھر کی نقاشی جس میں اٹھ پتھروں کے پھول بنائے جاتے ہیں۔
 اٹھوں پھری۔ اٹھوں پھر کا۔ ہر وقت کا بھر زخمی (۲) نگہبان کھینوں کا نخل
 (۳) سحر کھائے بغیر روزہ۔ ہر وقت سبکی جانے والی نوبت۔
 اٹھ پینا۔ اٹھ کو نہ والا جس میں اٹھ گوشے ہوں۔
 اٹھ ماسا۔ وہ کھیت جو اسار دھ سے ماگھ تک اٹھ مینے وقتاً فوقتاً جوتا جائے

اور جس میں ایک بوٹی جائے (۲) اٹھو انسا۔ وہ پتھر جو آٹھ ماہ میں پیدا ہو جا۔
 اٹھواری۔ ایک ستر کا پتھر جس میں آٹھ نا لیں ہوتی ہیں۔
 اٹھووارہ۔ آٹھ دن کا وقت۔
 اٹھواری۔ وہ ستور جس کے مطابق آسامی جوتانی کے وقت آٹھویں دن اپنا بل
 بیل زمیندار کو کھیت جوتنے کے لیے دیا جاتا ہے (۲) آٹھ دن کے بعد
 باری آنا۔
 اٹھوانس۔ آٹھ کوٹوں والا۔ ہشت پہلو۔ مٹن۔
 اٹھوانسا۔ (۱) وہ پتھر جو آٹھ مینے میں پیدا ہو جائے (۲) وہ کھیت جو اسار
 سے ماگھ تک با بار جوتا جاتا رہے اور جس میں ایک بوٹی جائے۔
 اٹھا۔ (اٹھ۔ ٹھا) [۵-۱-مٹ] تاش کا ایک پتا جس پر کسی رنگ کے آٹھ نشان
 بنے ہوں۔
 اٹھا۔ (اٹھ۔ ٹھا) [۵-۱-مٹ] اٹھ بیٹھا۔
 اٹھا بیٹھی۔ اٹھ بیٹھی۔ گھڑی گھڑی اٹھنا گھڑی بیٹھنا۔
 اٹھا بیٹھی رگنا رکھنا۔ لگاتار اٹھنا بیٹھنا۔
 اٹھا دینا۔ (۱) دے دینا۔ اٹھا کر دینا (۲) دو چھوٹے یا کچھ بڑے پر کھو دینا (۳) مجلس
 یا محفل سے نکال دینا (۴) کاروبار بند کر دینا۔ کوئی کام چھوڑ دینا (۵)
 خرچ کر دینا۔ صرف میں لے آنا (۶) دیوار چن دینا (۷) یہ وہ اونچا کر دینا۔
 اٹھا رکھنا۔ (۱) باقی رکھنا۔ روک رکھنا (۲) سینٹ رکھنا۔ سنبھال رکھنا (۳)
 موقوف رکھنا۔ ملتوی رکھنا۔
 اٹھا لانا۔ (۱) لے آنا۔ بیٹھے کو لے آنا۔ جلا لانا (۲) خرید لانا۔
 اٹھا لے جانا۔ (۱) کسی چیز کو لے جانا (۲) مراد لے جانا۔ لاش کو لے جانا۔
 اٹھا لینا۔ (۱) بلند کر لینا۔ اٹھ کر لینا (۲) تعمیر کر لینا (۳) ہاتھ میں لے لینا۔
 (۴) صرف کر ڈالنا (۵) سنبھال لینا۔ برواشت کر لینا (۶) تعلق توڑ
 لینا۔ انگ کر لینا۔ ہٹا لینا (۷) اپنے اوپر لے لینا (۸) دینا سے اٹھا
 لینا۔ جان لے لینا۔ مار ڈالنا۔
 اٹھا مارنا۔ زمین پر چھت کر دینا۔ غالب آنا۔ بیٹھ دینا۔ پھاڑنا۔
 اٹھا رہ۔ (اٹھ۔ ٹھا۔ رہ) [۵-مٹ] دس اور آٹھ۔
 اٹھا سنی۔ (اٹھ۔ سنی) [۵-مٹ] اسی ادا ٹھ۔ سناسی کے بعد کا عدد۔
 اٹھا سنی واں جس کی گنتی سناسی کے بعد ہو۔
 اٹھان۔ (اٹھ۔ ن) [۵-۱-مٹ] (۱) اٹھنا۔ اٹھنے کی حالت (۲) شروع
 آغاز (۳) ابھار۔ ابلیدگی
 اٹھانا۔ (اٹھ۔ ٹھانا) [۵-مٹ] (۱) اٹھنا کرنا (۲) اختیار کرنا (۳) صاف کرنا
 (۴) باہر کر دینا (۵) جان لے لینا (۶) بنانا۔ تعمیر کرنا (۷) چھوڑ دینا۔
 توڑ دینا (۸) جگانا (۹) خرچ کرنا (۱۰) موقوف کرنا (۱۱) سنبھالنا۔
 (۱۲) نکالنا لے جانا (۱۳) برپا کرنا۔ قائم کرنا (۱۴) حاصل کرنا (۱۵)
 انجام دینا (۱۶) ملتوی کرنا (۱۷) ہٹانا۔ اٹھنا (۱۸) برواشت کرنا۔
 (۱۹) چھوڑ دینا۔ باقی رکھنا (۲۰) پھیلانا (۲۱) اتارنا (۲۲) کھیننا۔
 (۲۳) ڈور کرنا (۲۴) اٹھارنا۔ بند کرنا (۲۵) لے لینا (۲۶) پکڑنا
 (۲۷) دے دینا (۲۸) چرانا (۲۹) ستر کھانے کے لیے ہاتھ میں لینا (۳۰)
 دہرانا۔ شاعر کا صرغ سن کر سے بلند آواز سے دہرانا۔

اٹھانوںے (۱۔ اٹھان جوے) [۵۔ صف] توے اور آٹھ۔ سنا توے کے بعد کا عدد۔
 اٹھانوں (اٹھ۔ ٹھا۔ ون) [۵۔ صف] پیاس اور آٹھ۔ سنا دن کے بعد کا عدد۔
 اٹھاؤ۔ اٹھاؤ (داؤ مجول) [۵۔ ۱۰۔ مذ] اٹھان۔ ترقی اٹھانا مصدر کا امر
 اٹھاؤ چڑھا۔ (مخاورہ) (۱۱) وہ چوٹھے ہرگیے کے جاسکیں (۳) آدمی جو ایک جگہ
 جم کر نہ رہے۔ خانہ بدوش۔
 اٹھاؤ میرا مکتا میں گھر سنبھالوں اپنا۔ [منش] اے شرم عورت کو کہتے ہیں جو سیاہ
 ہوتے ہی شوہر کے گھر کا انتظام کرنے لگے اور میاں کو لے کر
 ایک ہو جائے۔
 اٹھاؤنی۔ (اٹھاؤ۔ نی) [۵۔ ۱۔ مٹ] (۱۱) تیرا۔ سوم۔ چھول۔ ہندوؤں کی ایک رسم
 جب مردے کی ہڈیاں لنگھ میں ڈالنے کے لیے لٹھیاں ہیں۔
 اٹھانیں۔ (اٹھانیں) [۵۔ صف] میں اور آٹھ۔ سنا نہیں کے بعد کا عدد۔
 اٹھانی جائے نہ دھری جائے۔ [منش] مشکل مصیبت (۲) ایسی بات جو
 برداشت نہ کی جائے اور اس کا جواب بھی نہ دیا جاسکے۔
 اٹھانی گیرا۔ (اٹھان۔ ای۔ گرا) [۵۔ صف] (۱۱) اچکا۔ آٹھ بچا کر چھوٹی چھوٹی
 چیزیں پیر لینے والا۔ جیب کتا (۲) بد معاش۔ لٹھا۔
 اٹھ لیٹھ۔ (اٹھ۔ لیٹھ) [۵۔ ۱۔ مٹ] (۱۱) اٹھاپٹی۔ بار بار اٹھنا بیٹھنا (۲) ایک
 قسم کی سزا جو سنا دش گروں کو دیا کرتے ہیں۔
 اٹھ بیٹھنا۔ (اٹھ۔ بیٹھ۔ نا) [۵۔ صف] (۱) جاگ اٹھنا۔ بیدار ہو جانا (۲) بیٹھے
 سے کھڑا ہو جانا (۲) تند دست ہو جانا۔ جھگڑا ہو جانا۔
 اٹھتا بیٹھتا۔ (اٹھتا۔ تا۔ بیٹھتا) [۵۔ صف] گرتا پڑتا۔ درجہ بہ درجہ
 اٹھتا جوین۔ (اٹھتا۔ اٹھتا) [۵۔ ۱۔ مٹ] آغاز شباب۔ سینے کے اٹھار کا زمانہ۔
 اٹھتے۔ (اٹھتے۔ تے) [۵۔ صف] ستر اور آٹھ۔ ستر کے بعد کا عدد۔
 اٹھتی۔ (اٹھتی۔ تی) [۵۔ صف] (۱) اٹھتی ہوئی۔ کھڑی ہوئی ہوئی (۲) اٹھتی ہوئی
 (۳) خم ہوئی ہوئی (۴) شروع ہوئی ہوئی۔
 اٹھتی پلینڈ۔ (اٹھتی۔ اٹھتی) بازار یا باٹ جو بند ہونے کے قریب ہو (۲) اٹھنے
 والا میلہ (۳) چل چلاؤ۔ شخصیت کا وقت۔
 اٹھتی پلینڈ اٹھوں دن۔ [منش] وقت کے ہاتھ سے نہ دینا چاہئے۔ ورنہ
 پھر بوقت ہاتھ نہ آئے گا۔
 اٹھتی جوانی۔ آغاز جوانی۔ شباب کے دن۔
 اٹھتی جوانی میں اٹھ گیا۔ زوجان مر گیا۔
 اٹھتی کوئیل۔ (۱۱) نئی اور بھتی ہوئی شئی (۲) جوانی۔ نوز۔ نوزیر۔ شروع شباب۔
 اٹھنے۔ (اٹھنے۔ ٹے) [۵۔ صف] کھڑے ہوتے ہوئے۔
 اٹھتے اٹھتے۔ جمع حوائج ضرور سے فایز ہوتے ہوتے (۲) خرچ ہو ہوا کر۔
 اٹھتے بیٹھتے۔ (۱) گرتے پڑتے اٹان خیراں (۲) ٹھہر ٹھہر کر۔ بڑی وقت سے
 (۳) پروت۔ اکثر و بیشتر۔
 اٹھتے جوتی بیٹھتے لات۔ [منش] ہر وقت بے عزتی۔ نہایت ذلت و
 خواری کا برتاؤ۔
 اٹھ جانا۔ (اٹھ۔ جانا) [۵۔ صف] (۱) چلا جانا۔ خصمت ہو جانا (۲) مر جانا۔
 (۳) خرچ ہو جانا۔ (۴) جانا رہنا۔ عمل یا حکومت بدل جانا۔
 اٹھ رہنا۔ [۵۔ صف] ملتوی رہنا۔

اٹھ سکتا۔ [۵۔ صف] لیٹے سے بیٹھ سکتا۔ کھڑا ہو سکتا۔ بڑا اشت ہو سکتا۔ نکل ہو سکتا۔
 اٹھ کو پانی نہیں بیا جاتا۔ [منش] بے حد کاہلی یا نہایت ضعف اور ناتوانی
 کے موقع پر ہوتے ہیں۔
 اٹھ کھڑا ہونا۔ (۱) چیلنے کو تیار ہونا (۲) قائم ہونا۔ برپا ہونا (۳)
 اٹھنا۔ دفعہ کسی مرض کا پیدا ہونا (۴) لڑنے کو تیار ہونا۔ (۵)
 بیماری سے صحت پانا۔
 اٹھ کھیل۔ (اٹھ۔ کھیل) [۵۔ ۱۔ مٹ] [منش] دل لگی۔ مذاق۔
 اٹھلانا۔ (اٹھ۔ لانا) [۵۔ صف] (۱) اڑانا (۲) چونکلا کرنا۔ بخو کرنا (۳) مستی
 دکھانا (۴) چھیلنے کے لیے جان بوجھ کر اسیان بننا۔ اغاض کرنا۔
 اٹھلا ہٹ۔ (اٹھ۔ لا۔ ہٹ) [۵۔ ۱۔ مٹ] (۱) ناز۔ نخو۔ غمزہ (۲)
 ٹھسک۔ ٹھسکا۔
 اٹھلو۔ (اٹھلو۔ ٹو) [۵۔ صف] ایک جگہ پر نہ رہنے والا۔ جم کر کام نہ کرنے والا۔
 اٹھنا۔ (اٹھنا۔ نا) [۵۔ صف] (۱) کھڑا ہونا۔ ایستا ہونا (۲) اوجھا ہونا۔ بلند ہونا۔
 اچھا ہونا (۳) جاگنا۔ بیدار ہونا (۴) آمادہ ہونا۔ مستعد ہونا (۵) چلنا۔ نکلنا۔
 روانہ ہونا (۶) برپا ہونا (۷) دکان یا مکان چھوڑنا۔ خالی کرنا شروع
 کرنا (۸) نشوونما پانا (۹) حاصل ہونا (۱۰) اٹنا۔ پرواز کرنا۔
 (۱۱) گھوڑی وغیرہ کا مست ہونا (۱۲) خرچ ہونا (۱۳) موقوف ہونا۔
 (۱۴) پڑھا جانا (۱۵) لغزش ہونا۔ ٹھپہ ہونا (۱۶) زمین کا اجارہ پر ہونا۔
 ٹھیکہ ہونا (۱۷) تربیت یافتہ ہونا (۱۸) اجارہ کا ترستی بر آ جانا۔ کھٹا
 ہونا (۱۹) مرنا۔ فوت ہونا (۲۰) سوار ہونا (۲۱) تمام ہونا۔ تیار ہونا۔
 کام سمٹنا (۲۲) جیسے درد وغیرہ اٹھنا۔
 اٹھنا بیٹھنا۔ نشست و برخاست رکھنا صحبت رکھنا۔
 اٹھ نہ سکتا۔ (۱) کھڑا نہ ہو سکتا (۲) برداشت نہ ہو سکتا (۳) جواب نہ دینا
 اٹھتی۔ (اٹھتی۔ تی) [۵۔ ۱۔ مٹ] آٹھ آنے کا چاندی کا رسک۔ آدھار پتہ
 پیاس پیسے کا رسک۔
 اٹھنے آنا۔ (اٹھ۔ نے۔ آنا) [۵۔ صف] آشوب کر آنا۔
 اٹھو آنا۔ (اٹھ۔ وانا) [۵۔ صف] (۱) کھڑا کر دانا۔ کسی جگہ سے نکلوانا۔
 (۲) تعمیر کر دانا۔ (۳) خرچ کر دانا۔
 اٹھو آڑا۔ اٹھو آڑا۔ (۵۔ ۵۔ مذ) ایک بھتنہ۔ آٹھ دن۔
 اٹھو آں۔ (۵۔ صف) اٹھا ہوا۔ اٹھا ہوا۔
 آئی۔ (آئی۔ ٹی) [۵۔ ۱۔ مٹ] اٹیرن پر بیٹھا ہوا اون یا سوت۔ لٹھا۔
 (۲) بولا۔ گٹھا۔ کیموں کی بالوں کا ٹھٹھا۔ (۳) بگڑی۔
 اٹیرن۔ (اٹیرن۔ رن) [۵۔ ۱۔ مٹ] (۱) سوت کی انٹی بنانے کا آلہ (۲) دلباس
 (۳) پہلوانوں کی اصطلاح میں ایک پیچ کا نام (۴) گھوڑا پھرنے کا ایک طریقہ
 اٹیرن پھیرنا۔ گھوڑے کو کاوا دینے کا ایک طریقہ۔ ڈہرا کاوا۔ ریچکر اس ٹھٹھے
 سے مشابہ ہوتا ہے جو اٹیرن سے اترتا ہے۔
 اٹیرن کر دینا کشتی میں داؤ پیچ جس سے آدمی کھرا جلتے (۲) دم نہ لینے دینا۔
 اٹیرن ہونا۔ (۱) بڑی نکل آنا۔ بہت ڈبلا ہو جانا (۲) گھوڑے کو چابک مار کر
 جکڑ دینے کی ایک شکل۔
 اٹیرنا۔ (اٹیرنا۔ نا) [۵۔ صف] اٹیرن سے موت کی انٹی بنانا۔ سوت لپٹینا۔

ا-ث

اثاث - (ع- مذ) اثاث کی جمع۔ سامان۔ سرمایہ۔ زیور (۲) زیادہ ہونا۔
اثاث البیت - (ا-ثا- ثعلی - بیت) (ع- مذ) اسباب خانہ داری۔ گھر کا سامان۔ منقولہ جائداد۔
اثاثہ - (ا-ثا- ث) (ع- ا- مذ) (۱) جمع کیا ہوا۔ جوڑا ہوا (۲) سرمایہ۔ اسباب کپڑا اتنا وغیرہ۔ سامان جو جمع کیا ہوا ہو۔ جمع: اثاث
اثارت - (ا-ثا- رث) (ع- مٹ) کسی کیفیت کا بقیہ نشان۔
اثالب - (ا-ثا- لب) (ع- مذ) غلب کی جمع۔ وہ مکان جو عربوں نے پہاڑوں کو کھود کر بنائے تھے اور ان میں نفش دنگا رکھے جلتے تھے۔
اثبات - (ا-ث- بات) (ع- ا- مذ) (۱) الباطل کی ضد۔ ثبوت۔ دلیل۔ تصدیق (۲) نقض بنانا (۳) قیام۔ بجال (۴) استقامت
اثبات مجرم - مجرم ثابت ہونا۔
اثبات کو پہنچانا - (محاورہ) ثبوت فراہم کرنا۔ ثابت ہوجانا۔
اثر - (ع- ا- مذ) (۱) سنت نبوی۔ حدیث کی قسموں میں سے ایک قسم (۲) تاثیر (۳) نشان۔ زخم کا داغ (۴) کھنڈر (۵) کھوج (۶) نتیجہ۔ ناکہ۔ جمع: اثاثا
اثرات (۷) آسیب کا سایہ۔
اثر آنا - (محاورہ) تاثیر پیدا ہونا۔
اثر آنے لگنا - تاثیر ہونا۔ شروع ہوجانا۔
اثر آنا رنا - (محاورہ) نشہ آنا رنا۔ آسیب ڈور کرنا۔
اثر بخشنا - تاثیر پیدا کرنا۔
اثر پڑنا - اثر ہونا۔ منشا ہونا۔
اثر پڑنا (پڑیر) - اثر قبول کرنے والا۔
اثر دکھانا - تاثیر پیدا کرنا۔
اثر ڈالنا - (محاورہ) (۱) تاثیر پیدا کرنا (۲) زور ڈالنا۔ منشا کرنا۔
اثر رکھنا - (محاورہ) اپنی ذات میں کسی طرح کی خاصیت رکھنا (۲) بااثر ہونا۔ تاثیر رکھنا (۳) قابو رکھنا۔
اثر کرنا - (محاورہ) خاصیت کا فعل صادر ہونا۔ تاثیر ہونا (۲) سرایت کرنا۔ پیٹھنا۔ گھسنا (۲) رنگ جمانا۔
اثر کھلنا - (محاورہ) تاثیر ظاہر ہونا۔
اثر ہونا - (محاورہ) تاثیر ہونا۔ رنگ جمانا (۲) سمجھ میں آنا۔ ذہن نشین ہونا۔
اثری - (ع- صفت) آنا قدریر سے متعلق۔ تاریکی۔
انقال - (ا-ث- خالی) (ع- ا- مذ) نقل کی جمع۔ بوجھ۔ وزن۔
رائع - (ع- مذ) بھراؤل و سکون نانی و ثالث۔ گناہ۔ مصیبت۔ اخلاق یا مذہبی جرم۔
اشمار - (ا-ث- مار) (ع- ا- مذ) مٹر کی جمع۔ پھل۔ خوشے۔ میوے۔
اشمد - (ا-ث- ہ) (ع- ا- مذ) شرم کا پتھر۔
اشنا - (ا-ث- نا) (ع) [قذف۔ درمیان۔ بیچ۔ دوران۔
اشنلے تجویز - تحقیقات کے دوران میں۔
اشاعشر - (ا-ث- نا- ع- شمر) [ع- صفت] بارہ۔ اصطلاحاً بارہ امام علیہم السلام
اشاعشری - اشاعشریہ۔ شیعوں کے ماننے والوں کا ایک فرقہ جو بارہ اماموں کو مانتا

ہے۔ امامیہ۔

اثبان - (ا-ث- بان) [ع- صفت] دو کا عدد۔ دوسرا۔
اشئین - (ا-ث- نین) [ع- صفت] دو۔
اثر - (ا-ث- ثیر) [ع- صفت] (۱) عالی۔ بلند۔ آسمان (۲) ایتھر
اثریم - (ا-ث- یم) [ع- صفت] گنگنار۔ عاصی۔ مجرم۔ غامبی۔

ا-ج

اجابت - (ا-جا- بت) (ع- ا- مٹ) (۱) جواب دینا۔ قبول۔ موافقت۔
اجابت ہونا - (۲) رفق حاجت (۳) پاخانہ۔ براز۔
اجابت ہونا - (محاورہ) فضل خارج ہونا۔ پاخانہ آنا۔
اجابی - (ا-جا- بی) (س- صفت) قوم سے باہر قوم سے نکلا ہوا۔
اجارہ - (ا-جا- ر) (ع- ا- مذ) (۱) کسی چیز کی تجارت پر بلا شرکت غیرے قبضہ (۲) اجرت پر دینا (۳) کرایہ۔ ٹھیکہ (۴) دعویٰ حکومت قبضہ قابو۔ اختیار۔ جمع اجارات۔
اجارہ اچاڑا - ٹھیکے کا کام خراب ہونا ہے۔
اجارہ بازہنا - قبضے میں لانا۔ قبضہ کرنا۔ (۲) ٹھیکے پر لینا (۳) اجرت پر مزدوروں کی خدمات حاصل کرنا۔
اجارہ دار - (۱) وہ شخص یا ادارہ جس کو کسی چیز کی تجارت کا بلا شرکت غیرے حق حاصل ہو (۲) ٹھیکہ دار (۳) کرایہ پر لینے والا۔
اجارہ داری - کسی تجارت پر بلا شرکت غیرے قبضہ۔ مکمل قبضہ۔ ٹھیکیداری۔
اجارہ کار - زمین یا مکان وغیرہ کو کرایہ پر دینے والا۔
اجارہ کرنا - (محاورہ) (۱) ٹھیکے پر کوئی کام ٹھکانا (۲) دتے لینا (۳) ٹھیکہ لینا۔
اجارہ کیا ہے - (محاورہ) قابو نہیں ہے۔ کچھ دعویٰ نہیں ہے۔
اجارے لینا - ٹھیکے پر لینا۔
اچاڑا - (ا-جا-ڑ) [ع- صفت] ویران۔ غیر آباد۔ جنگل۔ آباد کی ضد۔
اچاڑ صورت - بد صورت۔ بد نما۔
اچاڑ کا - دیر لسنے کا۔
اچاڑنا - (ا-جا-ڑنا) [ع- مٹ] (۱) ویران کرنا۔ برباد کرنا (۲) سمار کرنا۔ ڈھکانا۔ اینٹ سے اینٹ بجانا (۳) اکھاڑنا (۴) ضائع کر دینا۔
اچاڑو - (ا-جا-ڑو) [ع- صفت] برباد کرنے والا۔ کھاڑو۔ لٹاؤ۔
اجازت - (ا-جا- زت) (ع- ا- مٹ) [ع- حکم۔ ارشاد۔ پرواگی منظور۔ کسی پر کا اپنے مرید کو وظیفہ پڑھنے کا اختیار دینا۔
اجازت طلب - اجازت چاہنے والا۔
اجازت نامہ - وہ تحریر جس کے ذریعے کسی بات کی اجازت دی گئی ہو۔ سند۔
اچاڑہ - (ا-جا-ڑہ) (ع- ا- مذ) پروانہ ریلداری۔
اجارح - (ا-جا-رح) (ت- ا- مذ) چوہا۔ وگدان۔
اچاگر - (ا-جا-گر) [ع- صفت] (۱) روشن۔ تابان۔ درخشاں (۲) ظاہر حیاں
اچالا - (ا-جا-لا) [ع- ا- مذ] کور۔ روشنی۔ جھگ۔

اُجالا ہونا۔ (۱) روشنی ہونا۔ دن ٹھکانا (۲) لٹ جانا۔ صفحہ یا ہوجانا۔ کچھ باقی نہ رہنا۔ اُجالے کا پہلا کچھل رات کا پہرہ جو صبح کو شروع ہوتا ہے۔ اُجالے کا شمار۔ صبح کا شمار۔ زہرہ۔

اُجالنا۔ (اُ-جال-نا) [ہ-مص] چمکانا جھکانا۔ صاف کرنا۔ بھکانا۔ زیور کا میل نکالنا۔ معینل کرنا۔

اُجان۔ (ا-جان) [ہ-صف] (۱) اُن جان۔ نہ جلنے والا۔ نا بھج (۲) نہ جانا ہوا۔ اُجا نبت۔ (ا-جا-نبت) [ع-ا-نبت] اجنب کی جمع۔ بیگنے۔ اجنبی لوگ۔

اُجبار۔ (ا-ج-بار) [ع-نبت] اجبر۔ زبردستی (۲) مجبوری۔ اُجکت۔ (ا-ج-کت) [ت-ا-نبت] اُردو میں بگڑا ہوا اصل ازبک ہے (۱) ترکوں کی ایک قوم (۲) اُجڑے بے وقوف۔ اناڑی۔

اجتماع۔ (ا-ج-ت-ماع) [ع-ا-نبت] جمع۔ بھیر۔ اکٹھا ہونا۔ اجتماع ہونا۔ اجتماع۔ اجتماعات۔

اجتماع حدیثین۔ اجتماع تھقیقین۔ دو مخالف چیزوں کی یک جاتی۔ اجتماعی۔ (ا-ج-ت-ماع) [ع-صف] منسوب بہ اجتماع۔ پورے طور پر۔ مجموعی طور پر۔

اجتماع سمیت۔ (ا-ج-ت-ماع) [ع-ا-نبت] (۱) ایک جگہ اکٹھا ہونا (۲) ایک نظر جس کی رو سے ملکیت انفرادی نہیں اجتماعی ہوتی چاہئے۔

اجتناب۔ (ا-ج-ت-ناب) [ع-ا-نبت] (۱) پہلو سجانا۔ پرہیز کرنا (۲) بچاؤ گزارہ۔ بلیغی۔ پرہیز۔ خوشہ گیری۔

اجتناب و۔ (ا-ج-ت-ناب) [ع-ا-نبت] (۱) جدوجہد۔ کوشش کرنا۔ ٹھیک راہ ڈھونڈنا (۲) بہت سوچنا۔ غور و خوض سے کسی مسئلہ کا حل کرنا (۳) ایجاد۔ نئی بات پیدا کرنا (۴) فقہ اسلامی کی اصطلاح میں قرآن و حدیث اور اجتماع پر بنائیں کرنے کے شرعی مسائل کا اخذ کرنا۔ جمع : اجتناب و ات۔

اجداد۔ (ا-ج-داد) [ع-ا-نبت] جد کی جمع۔ باپ۔ دادا۔ بڑے۔ اُجد۔ (ا-ج-د) [ہ-صف] (۱) گنوار۔ بے وقوف (۲) جاہل مطلق۔ بنی اُجد۔

اُجدین۔ بے پردہ پن۔ گنوار پن۔ اُجد۔ (ع-ا-نبت) نیک کام کا عوض۔ ثواب۔ بدلہ۔ پھل۔ اُجرت۔ مزدوری۔ اجر جائز۔ قانوناً جائز محض۔

اجر غیر ممنون۔ بے نقصان ثواب۔ ایسا بدلہ جس پر احسان نہ جتایا جائے۔ اجرا۔ (ا-ج-را) [ع-ا-نبت] ہماری کردہ مشروع کرنا۔ کام چلانا۔ اجرائے ہو گئی۔ ڈگری کا جاری کرنا۔

اجوائے سمن۔ گواہ کے ناظر طبی کے واسطے سمن جاری کرنا۔ اجرام۔ (ا-ج-رام) [ع-ا-نبت] نجوم کی جمع جسم۔ ستاروں اور جواہرات کے جسم۔ اجرام فلکی۔ سورج۔ چاند۔ ستارے اور سیارے وغیرہ۔

اجرت۔ (ا-ج-رت) [ع-ا-نبت] مزدوری۔ کام کا عوض۔ حق الخدمت۔ اُجرت خالص۔ نقد مزدوری۔ کسی کام کا عوض نقدی کی صورت میں۔

اُجرتی۔ (ا-ج-رتی) [ع-صف] اُجرت پر کام کرنے والا۔ مزدوری کا کام۔ اُجرتا۔ (ا-ج-رتا) [ہ-صف] (۱) دیران۔ برباد۔ (۲) لٹا پٹا۔ (۳) خانہ خراب۔ اجرا بچھڑا۔ لٹا پٹا۔ بر باد شدہ۔ دیران۔

اُجرت۔ (ا-ج-رت) [ع-صف] بہت بزرگ۔ بڑا ذی شان۔ جلیل القند۔ اُجرتا۔ (ا-ج-رتا) [ہ-صف] (۱) صاف ستھرا۔ سفید۔ میلانی ضد (۲) دھولی۔

اُجرت۔ (ا-ج-رت) [ع-صف] بہت بزرگ۔ بڑا ذی شان۔ جلیل القند۔ اُجرتا۔ (ا-ج-رتا) [ہ-صف] (۱) صاف ستھرا۔ سفید۔ میلانی ضد (۲) دھولی۔

اُجرتا۔ (ا-ج-رتا) [ہ-صف] (۱) گھر میں رونق ہو گئی۔ گھر میں چیل ہل ہو گئی (۲) زندہ کا نکاح ہو گیا (۳) بے اولاد کے ماں بچہ پیدا ہونے پر کہتے ہیں۔

اُجرتا۔ (ا-ج-رتا) [ہ-صف] (۱) گھر میں رونق ہو گئی۔ گھر میں چیل ہل ہو گئی (۲) زندہ کا نکاح ہو گیا (۳) بے اولاد کے ماں بچہ پیدا ہونے پر کہتے ہیں۔

اُجرتا۔ (ا-ج-رتا) [ہ-صف] (۱) گھر میں رونق ہو گئی۔ گھر میں چیل ہل ہو گئی (۲) زندہ کا نکاح ہو گیا (۳) بے اولاد کے ماں بچہ پیدا ہونے پر کہتے ہیں۔

اُجرتا۔ (ا-ج-رتا) [ہ-صف] (۱) گھر میں رونق ہو گئی۔ گھر میں چیل ہل ہو گئی (۲) زندہ کا نکاح ہو گیا (۳) بے اولاد کے ماں بچہ پیدا ہونے پر کہتے ہیں۔

اُجرتا۔ (ا-ج-رتا) [ہ-صف] (۱) گھر میں رونق ہو گئی۔ گھر میں چیل ہل ہو گئی (۲) زندہ کا نکاح ہو گیا (۳) بے اولاد کے ماں بچہ پیدا ہونے پر کہتے ہیں۔

اُجرتا۔ (ا-ج-رتا) [ہ-صف] (۱) گھر میں رونق ہو گئی۔ گھر میں چیل ہل ہو گئی (۲) زندہ کا نکاح ہو گیا (۳) بے اولاد کے ماں بچہ پیدا ہونے پر کہتے ہیں۔

اُجرتا۔ (ا-ج-رتا) [ہ-صف] (۱) گھر میں رونق ہو گئی۔ گھر میں چیل ہل ہو گئی (۲) زندہ کا نکاح ہو گیا (۳) بے اولاد کے ماں بچہ پیدا ہونے پر کہتے ہیں۔

اُجرتا۔ (ا-ج-رتا) [ہ-صف] (۱) گھر میں رونق ہو گئی۔ گھر میں چیل ہل ہو گئی (۲) زندہ کا نکاح ہو گیا (۳) بے اولاد کے ماں بچہ پیدا ہونے پر کہتے ہیں۔

اُجرتا۔ (ا-ج-رتا) [ہ-صف] (۱) گھر میں رونق ہو گئی۔ گھر میں چیل ہل ہو گئی (۲) زندہ کا نکاح ہو گیا (۳) بے اولاد کے ماں بچہ پیدا ہونے پر کہتے ہیں۔

اُجرتا۔ (ا-ج-رتا) [ہ-صف] (۱) گھر میں رونق ہو گئی۔ گھر میں چیل ہل ہو گئی (۲) زندہ کا نکاح ہو گیا (۳) بے اولاد کے ماں بچہ پیدا ہونے پر کہتے ہیں۔

اُجرتا۔ (ا-ج-رتا) [ہ-صف] (۱) گھر میں رونق ہو گئی۔ گھر میں چیل ہل ہو گئی (۲) زندہ کا نکاح ہو گیا (۳) بے اولاد کے ماں بچہ پیدا ہونے پر کہتے ہیں۔

اُجرتا۔ (ا-ج-رتا) [ہ-صف] (۱) گھر میں رونق ہو گئی۔ گھر میں چیل ہل ہو گئی (۲) زندہ کا نکاح ہو گیا (۳) بے اولاد کے ماں بچہ پیدا ہونے پر کہتے ہیں۔

اُجرتا۔ (ا-ج-رتا) [ہ-صف] (۱) گھر میں رونق ہو گئی۔ گھر میں چیل ہل ہو گئی (۲) زندہ کا نکاح ہو گیا (۳) بے اولاد کے ماں بچہ پیدا ہونے پر کہتے ہیں۔

اُجرتا۔ (ا-ج-رتا) [ہ-صف] (۱) گھر میں رونق ہو گئی۔ گھر میں چیل ہل ہو گئی (۲) زندہ کا نکاح ہو گیا (۳) بے اولاد کے ماں بچہ پیدا ہونے پر کہتے ہیں۔

اُجرتا۔ (ا-ج-رتا) [ہ-صف] (۱) گھر میں رونق ہو گئی۔ گھر میں چیل ہل ہو گئی (۲) زندہ کا نکاح ہو گیا (۳) بے اولاد کے ماں بچہ پیدا ہونے پر کہتے ہیں۔

اُجرتا۔ (ا-ج-رتا) [ہ-صف] (۱) گھر میں رونق ہو گئی۔ گھر میں چیل ہل ہو گئی (۲) زندہ کا نکاح ہو گیا (۳) بے اولاد کے ماں بچہ پیدا ہونے پر کہتے ہیں۔

اُجرتا۔ (ا-ج-رتا) [ہ-صف] (۱) گھر میں رونق ہو گئی۔ گھر میں چیل ہل ہو گئی (۲) زندہ کا نکاح ہو گیا (۳) بے اولاد کے ماں بچہ پیدا ہونے پر کہتے ہیں۔

اُجرتا۔ (ا-ج-رتا) [ہ-صف] (۱) گھر میں رونق ہو گئی۔ گھر میں چیل ہل ہو گئی (۲) زندہ کا نکاح ہو گیا (۳) بے اولاد کے ماں بچہ پیدا ہونے پر کہتے ہیں۔

اُجیالی - (اُج - یا - لی) [ہ - ا - مٹ] (۱) اجمالی کا تائید (۲) گھوڑے کی اندھیری۔
اُجیت (اُجیت) [ہ - صف] (۱) غیر مفروضہ (۲) جسے کوئی جیت نہ سکے۔
اُجین - (اُجین) [ہ - صف] (۱) نہایت زبردست (۲) نہایت مضبوط۔
اُجین - (اُجین) [ہ - صف] (۱) فوجی عہدے کا نام (۲) سانس کی قسم کا ایک پرندہ۔
اُجیر - (اُجیر) [ہ - صف] (۱) مزدوری پر کام کرنے والا مزدور بھرتی۔
اُجیران - (اُجیران) [ہ - صف] (۱) ناگوار - بار خاطر دُوبھر (۲) وہ بات جس سے طبیعت اُٹتا چلے۔ وہ کام جو مشکل سے تمام ہو (۳) بدھنی۔
اُجیرن کو اُجیرن ہی بھٹیلے نہیں تو سر جو چہتے بھیلے [مثل] طاقنت دارے کا مفاہط طاقنت والا ہی کر سکتا ہے اگر زور کرے گا تو مارا جائے گا۔
اُجیرن ہونا - ناگوار ہونا۔ ناپسند ہونا۔ سخت یا دشوار ہونا۔ دُوبھر ہونا۔

ا - بچ

اُچاپت - (اُچا - پت) [ہ - ا - مٹ] (۱) دکاندار سے قرض کا لین دین (۲) شور و دل کو دیکھنا۔
اُچاپت اٹھانا - (۱) اُدھار سودا دینا (۲) مشکل کام انجام دینا۔
اُچاپت اٹھنا - (۱) اُدھار سودا اُجھانا (۲) دشوار کام انجام دیا جانا۔
اُچاپتی - (اُچا - پت) [ہ - صف] (۱) اُدھار لین دین - فروخ اور خرید۔
اُچاٹ - (اُچاٹ) [ہ - صف] (۱) بیزار - برداشتہ خاطر - اُٹنا یا ہونا۔ اُداس اُکھڑا ہونا۔
اُچاٹ دینا - اُچاٹ کر دینا۔ اُکھاڑ دینا کسی کو برگشتہ خاطر کر دینا۔
اُچاٹ ہونا - (۱) دل بہت جانا برداشتہ خاطر ہونا (۲) خند اُٹھانا۔
اُچاٹنا - (اُچاٹنا) [ہ - صف] (۱) برداشتہ خاطر کرنا۔ دل چھانا (۲) بیزار کرنا۔
اُچاڑ - (اُچاڑ) [ہ - ا - مٹ] (۱) کسی پھل یا توکاری کا مرکب جسے تیل سے سرکے یا پانی اور سالے سے تیار کیا جائے۔
اُچار اُٹھنا - اُچار کا ترش ہو کر تیار ہو جانا۔
اُچار پڑنا - اُچار بننا۔ پھل وغیرہ کا سرکے، پانی یا تیل میں گلنے اور ترش ہونے کے لیے ڈالا جانا۔
اُچار ڈالنا - (۱) اُچار بنانا (۲) ضرورت کسی چیز کو مدت تک رکھ چھوڑنا کسی شخص کو زیادہ دیر تک بھٹلانا۔
اُچار کر دینا - بہت پینا۔ مارنے مارنے صورت بگاڑ دینا۔
اُچار نکالنا - (۱) اُچار نکالنا - خوب مارنا۔ بے انتہا مارنا۔
اُچار نکھنا - بہت خواب حالت ہونا۔
اُچار ہو گئے - بُری حالت ہو گئی۔ صورت بگڑ گئی۔ اصلی حالت باقی نہ رہی۔
اُچار بچ - (اُچا - بچ) [ہ - ا - مٹ] (۱) معلم - استاد - ادریب - دیکھنے اُچار یہ اُچانا - (۱) اُچا - نا) [ہ - صف] (۱) اُچا کرنا۔ اُٹھانا۔ بلند کرنا۔
اُچانک - (اُچا - نک) [ہ - صف] (۱) یکایک - ناگاہ - یک بیک - ناگاہ۔
دھنڈ - بیکارگی - یکایک (۲) نامعلوم۔

اُجلاپن - صفائی - چمک - روشنی - رونق۔
اُجلا کا رخ نہ خوش سینگ اور خوش انتظامی سے گھر کی رونق اور طاہر دست ہونا۔
اُجلا کام - صاف کام جس میں چمک اور کسی قسم کی ابتری نہ ہو۔
اُجلا منہ - (اُجلا منہ) [ہ - صف] (۱) سرخ روئے گناہ۔
اُجلاس - (اُجلاس) [ہ - ا - مٹ] (۱) حاکم کے بیٹھے کی جگہ - کچری - دربار - جلسہ - اجتماع - نشست۔
اُجلاس کرنا - دربار کرنا - کچری کرنا۔
اُجلاٹ - (اُجلاٹ) [ہ - ا - مٹ] (۱) جمع کی جمع - کینے - سفلے - شور و ذلیل پیشوں کے لوگ - اشرف کی بندہ۔
اُجلاٹ - (اُجلاٹ) [ہ - ا - مٹ] (۱) شان و شوکت - عظمت۔
اُجلاٹ - (اُجلاٹ) [ہ - ا - مٹ] (۱) حلیل کی جمع - بڑے لوگ۔
اُجلی - (اُجلی) [ہ - صف] (۱) چینی - سفید - نرل - صاف (۲) دھوپن۔
اُجلی سچھ - فہم رسا - بات کی تہ کو جلد پہنچنے والی سچھ۔
اُجلی طبیعت - طبع رسا - سچھی ہوئی طبیعت۔
اُجلی گزران - خوش گزران - اچھی خوراک اور اچھے لباس سے بسر کرنا۔
اُجماع - (اُجماع) [ہ - ا - مٹ] (۱) جمع کرنا - اُکٹھا ہونا - اتفاق لانے (فقہ) مسلمان مجتہدین کا کسی امر شرعی پر متفق ہونا۔
اُجمال - (اُجمال) [ہ - ا - مٹ] (۱) کھول کر لکھنا اختصار کے ساتھ لکھنا (۲) ابہام۔
اُجمالی - (اُجمالی) [ہ - صف] (۱) مشترک جس میں جملہ کشتی نہ کی گئی ہو (۲) مبہم - گول - مختصر - سرسری چھیچھی ہوئی نظر۔
اُجمل - (اُجمل) [ہ - صف] (۱) بہت خوبصورت - حسین و جمیل۔
اُجناٹ - (اُجناٹ) [ہ - ا - مٹ] (۱) جنس کی جمع - غلہ (۲) چیزیں - اشیاء۔
اُجنتی - (اُجنتی) [ہ - ا - مٹ] (۱) پردہ سی غیر دیس کا مسافر (۲) نا آشنا - ناواقف۔
اُجنتی - وہ شخص جس سے جان پہچان نہ ہو - نیا - اُجناٹ - جمع : اُجناٹ۔
اُجنتیت - (اُجنتی) [ہ - ا - مٹ] (۱) بیگانی - غیریت - واقفیت نہ ہونا۔
اُجنتی - (اُجنتی) [ہ - ا - مٹ] (۱) جنس کی جمع - پیر - بانو۔
اُجوائن - (اُجوائن) [ہ - ا - مٹ] (۱) ایک دو کا نام۔
اُجورہ - (اُجورہ) [ہ - ا - مٹ] (۱) مزدوری - کام کا معاوضہ - اجرت - حق اجرت - کر لہ۔
اُجوت - (اُجوت) [ہ - صف] (۱) کھوکھلا - خالی پیٹ (۲) مریضوں کی مصلحت میں وہ لفظ جس کے عین کلمے میں حرف علت (و - ا - ی) ہو۔
اُجھانٹا - (اُجھانٹا) [ہ - صف] (۱) اُٹھانا۔ ایک برتن سے کوئی شے دوسرے برتن میں ڈالنا۔
اُجھڑ - (اُجھڑ) [ہ - صف] (۱) جھگڑاؤ - بات بات پر ٹکرا کر کرنے والا۔
اُجھل - (اُجھل) [ہ - صف] (۱) بڑا جاہل - بہت ہی اُجڈ نہایت بے وقوف۔
اُجھینا - (اُجھینا) [ہ - ا - مٹ] (۱) چوٹے میں اُپٹے چوڑنے کا ایک طریقہ۔
اُجھو وغیرہ کی ناڈی کے پیچھے ایک بار اُپٹے لگا دینا جو اس کے پیچھے تک کفایت کریں۔
اُجھی - (اُجھی) [ہ - صف] (۱) اُجھڑاؤ - اُجھڑاؤ - اُجھڑاؤ۔
اُجھی - (اُجھی) [ہ - صف] (۱) اُجھڑاؤ - اُجھڑاؤ - اُجھڑاؤ۔
اُجھی - (اُجھی) [ہ - صف] (۱) اُجھڑاؤ - اُجھڑاؤ - اُجھڑاؤ۔
اُجھی - (اُجھی) [ہ - صف] (۱) اُجھڑاؤ - اُجھڑاؤ - اُجھڑاؤ۔
اُجھی - (اُجھی) [ہ - صف] (۱) اُجھڑاؤ - اُجھڑاؤ - اُجھڑاؤ۔

اچھیا آنا۔ اچھیا گزرنہ۔ اچھیا ہونا۔ حیرت ہونا۔ تعجب ہونا۔
اچھیا دانہ۔ ایک قسم کی مٹھائی جو خوشنماش کے دانوں پر لٹکرا توام چڑھا کر
بنائی جاتی ہے۔ نقول خشخاش۔

اچھیا کی بات۔ تعجب خیز بات۔

اچھیا میں رہنا۔ تعجب میں رہنا۔ متحیر ہونا۔

اچھیا (اچھیا۔ ت) (صفت) بے خیالی میں۔ اچھیا (۲) بے فکر مطلق۔

اچھیا (۱۔ اچھیا۔ ت) (صفت) [۱] جو نہ چوکے۔ جو خالی ذہن کے جو ٹھیک
دیکھے جو صحیح نتیجہ دکھائے۔

اچھیا۔ (اچھیا۔ ت) (صفت) [۱] بڑا کی عمدہ۔ بہتر۔ مناسب۔ ٹھیک۔ درست (۲)

تندرست بے روگ (۳) بہت خوب (۴) مبارک مسعود نیک (۵)

مضد سزاوار۔ موافق (۶) (طنزاً) بے ڈھب۔ بُرا (۷) افضل۔ اعلیٰ (۸)

تسلیم۔ اطمینان۔ دیکھا جائے گا (بڑا کی کہے) جیسے (۱۰) مٹ گیا (تاکید یا

تنبیہ کے لیے) (۱۱) اجانت ہے۔

اچھیا بُرا۔ (۱) نیک۔ دہر۔ بُرا۔ بھلا (۲) معمولی جیسا ہوسکا۔

اچھیا بھلا۔ تندرست۔ بھلا چنگ۔ بے عیب۔ صاف صاف۔ پورا۔ سالم۔

اچھیا۔ نیک۔ بھلائی۔

اچھیا خاصا۔ (۱) اچھیا صحیح سالم بھلا چنگ۔ تندرست بے عیب (۲) بہت

ٹھیک۔ درست۔ جیسا جیسے (۳) پورا (۴) نمایاں صاف صاف۔

اچھیا رہنا۔ (معاذہ) مرضی کے موافق کام میں پڑنا۔ بڑھ کر رہنا (۲) تندرست رہنا۔

اچھیا سلوک کیا۔ (معاذہ) (۱) نیک برتاؤ کیا۔ (۲) (طنزاً) بہت بُرا کیا اچھا نہیں کیا۔

اچھیا کرنا۔ (معاذہ) بھلا کرنا۔ تندرست کرنا (۲) خوب کرنا۔ مناسب کرنا۔

اچھیا کہنا۔ (معاذہ) (۱) تعریف کرنا۔ اچھے الفاظ سے یاد کرنا (۲) حمد شعر کرنا۔

اچھیا کیا حد لے کر کیا بند کرنے۔ [ایش] خیر خدا کی طرف سے ہے اور

شر انسان کی طرف سے۔

اچھیا لگنا۔ (معاذہ) بھلا معلوم دینا۔ پسند خاطر ہونا۔

اچھیا ہونا۔ (معاذہ) (۱) خوب ہونا۔ (۲) (طنزاً) بُرا ہونا۔

اچھیا ہونا۔ (معاذہ) (۱) تندرست ہونا (۲) مرضی کے موافق ہونا (۳) خوش خلق ہونا۔

اچھیا ہی اچھیا ہے۔ (معاذہ) ہر طرح آرام ہے۔ چین چین ہے۔

اچھیا کے اچھے ہی ہوتے ہیں۔ [خل] نیک نوجوان کی اولاد نیک ہی ہوتی ہے

اچھے آئے۔ (معاذہ) (۱) خوب آئے۔ خوب وقت پر آئے (۲) (طنزاً) واہ کیا کہنا۔

اچھے اچھوں۔ (۱) بڑے بڑوں (۲) نامی گرامیوں (۳) بڑے امیروں یا ذور آؤں۔

اچھے اچھے۔ (معاذہ) بڑے آدمی۔ ذی علم۔ دولت مند چین۔ اہل کمال۔

سماور آدمی۔

اچھے بڑے میں جانا۔ نکل کا فرق ہے۔ [ایش] اچھے کام کرنے میں بڑے کام

کرنے سے کچھ زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی ہے۔

اچھے جی سے۔ (معاذہ) خوشی سے۔ رضا و رغبت کے ساتھ۔ بلا آکراہ۔

اچھے حالوں گزرنہ۔ (معاذہ) آرام سے بسر ہونا۔

اچھے دام۔ (۱) مناسب، معقول۔ اندازہ سے زیادہ قیمت۔

اچھے دل سے۔ خوشی اور رغبت سے۔ محبت اور خلوص سے۔

اچھے دن آنا۔ (معاذہ) خوش آئندگی کے دن آنا۔ نصیب جاگنا۔

اچھیل۔ (اچھیل۔ ت) (صفت) [۱] اچھیل چیللا۔ شخص جو پھلنا نہ رہے۔ شوخ۔ طرار
(۲) تیز چالاک (۳) مضطرب۔ بے قرار۔

اچھیل۔ (اچھیل۔ ت) (صفت) شوخ۔ چیللا چیل۔

اچھیل۔ شوخی۔ ناز کرشمہ۔ چیللا۔

اچھیل ہٹ۔ (اچھیل۔ ت) (صفت) [۱] شوخی طراری چیلپاں

بے قراری۔ مضطرب۔

اچھیل۔ (اچھیل۔ ت) (صفت) [۱] بے خیالی سے۔ نادانستہ۔

اچھیل۔ (اچھیل۔ ت) (صفت) [۱] بے خیالی سے۔ نادانستہ۔

اچھیل۔ (اچھیل۔ ت) (صفت) [۱] بے خیالی سے۔ نادانستہ۔

اچھیل۔ (اچھیل۔ ت) (صفت) [۱] بے خیالی سے۔ نادانستہ۔

اچھیل۔ (اچھیل۔ ت) (صفت) [۱] بے خیالی سے۔ نادانستہ۔

اچھیل۔ (اچھیل۔ ت) (صفت) [۱] بے خیالی سے۔ نادانستہ۔

اچھیل۔ (اچھیل۔ ت) (صفت) [۱] بے خیالی سے۔ نادانستہ۔

اچھیل۔ (اچھیل۔ ت) (صفت) [۱] بے خیالی سے۔ نادانستہ۔

اچھیل۔ (اچھیل۔ ت) (صفت) [۱] بے خیالی سے۔ نادانستہ۔

اچھیل۔ (اچھیل۔ ت) (صفت) [۱] بے خیالی سے۔ نادانستہ۔

اچھیل۔ (اچھیل۔ ت) (صفت) [۱] بے خیالی سے۔ نادانستہ۔

اچھیل۔ (اچھیل۔ ت) (صفت) [۱] بے خیالی سے۔ نادانستہ۔

اچھیل۔ (اچھیل۔ ت) (صفت) [۱] بے خیالی سے۔ نادانستہ۔

اچھیل۔ (اچھیل۔ ت) (صفت) [۱] بے خیالی سے۔ نادانستہ۔

اچھیل۔ (اچھیل۔ ت) (صفت) [۱] بے خیالی سے۔ نادانستہ۔

اچھیل۔ (اچھیل۔ ت) (صفت) [۱] بے خیالی سے۔ نادانستہ۔

اچھیل۔ (اچھیل۔ ت) (صفت) [۱] بے خیالی سے۔ نادانستہ۔

اچھیل۔ (اچھیل۔ ت) (صفت) [۱] بے خیالی سے۔ نادانستہ۔

اچھیل۔ (اچھیل۔ ت) (صفت) [۱] بے خیالی سے۔ نادانستہ۔

اچھیل۔ (اچھیل۔ ت) (صفت) [۱] بے خیالی سے۔ نادانستہ۔

اچھیل۔ (اچھیل۔ ت) (صفت) [۱] بے خیالی سے۔ نادانستہ۔

اچھیل۔ (اچھیل۔ ت) (صفت) [۱] بے خیالی سے۔ نادانستہ۔

اچھیل۔ (اچھیل۔ ت) (صفت) [۱] بے خیالی سے۔ نادانستہ۔

اچھیل۔ (اچھیل۔ ت) (صفت) [۱] بے خیالی سے۔ نادانستہ۔

اچھیل۔ (اچھیل۔ ت) (صفت) [۱] بے خیالی سے۔ نادانستہ۔

اچھیل۔ (اچھیل۔ ت) (صفت) [۱] بے خیالی سے۔ نادانستہ۔

اچھیل۔ (اچھیل۔ ت) (صفت) [۱] بے خیالی سے۔ نادانستہ۔

اچھیل۔ (اچھیل۔ ت) (صفت) [۱] بے خیالی سے۔ نادانستہ۔

اچھیل۔ (اچھیل۔ ت) (صفت) [۱] بے خیالی سے۔ نادانستہ۔

اچھیل۔ (اچھیل۔ ت) (صفت) [۱] بے خیالی سے۔ نادانستہ۔

اچھیل۔ (اچھیل۔ ت) (صفت) [۱] بے خیالی سے۔ نادانستہ۔

اچھیل۔ (اچھیل۔ ت) (صفت) [۱] بے خیالی سے۔ نادانستہ۔

اچھیل۔ (اچھیل۔ ت) (صفت) [۱] بے خیالی سے۔ نادانستہ۔

اچھوتی - (۱- چھوتی) (۲- صف) (۱۱- بغیر چھوٹی ہوئی - نذر نیاز کی (۲) دھرت
 جسے مرد نے ہاتھ نہ لگایا ہو کنواری - نصیر الدین پادشاہ لکھنؤ کے زمانے
 میں وہ بن بیاری عورتیں جو امام ہمدی کی حرم بن جاتی تھیں اور شاہی دربار
 کی ملازم ہوتی تھیں ۱۳ بیسیائی ماہر
 اچھوتی کوکھ - وہ عورت جن کا کوئی سید نہ ملا ہو -
 اچھی - (۱- چھی) (۲- صف) (۱- اچھا کی تائینٹ (۱) خوشامد اور سبار کا لفظ
 پیاری - ہریان - عمدہ - خوب (۲) نیک بھلی - (۳) بے عیب - تندرست -
 اچھی بات ہے - (۲- صف) (۱) خوب بات ہے (۲) (طنز) نازیبا بات ہے
 نامناسب حرکت ہے -

اچھی چیز اپنے لیے آپ جگہ کر لینی ہے - [شیل] اچھی چیز خود اپنی تندو
 منزلت راہتی ہے -
 اچھی خاصی - بھلی جگہ - تندرست -
 اچھی دل لگی کی - نازیبا مذاق کرنے یا دھوکہ دینے کی جگہ طنز سے کہتے ہیں -
 اچھی راہ - نیک صلاح -
 اچھی طرح - (۱) خاطر خواہ - خوب جیسا چاہیے (۲) خیر و عافیت اور میں سے
 اچھی کھانا - آرام و آسائش کے ساتھ بسر ہونا - عورت و آبرو سے بسر ہونا -
 اچھی سی - طنز و تخریب کا کلمہ - اچھی بات نہیں ہے -

ح

احاد - (۱- حاد) (۲- ع) (۱- مذ) احد کی جمع - اکائیاں - ایک سے نو تک
 گنتی یا ہند سے -
 احادث - (ح- مذ) حادثہ کی جمع -
 احادیث - (۱- ح- مذ) (۲- ح- مذ) (۱) حدیث کی جمع (۱) باتیں خبریں -
 (۲) پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال -
 احاطہ - (۱- ح- ط) (۲- ح- ط) (۱) گھیرا - حلقہ چار دیواری سے گھری ہوئی
 جگہ (۲) پریزیڈنسی عصبہ ہمرکل (۳) گردہ - منڈل (۴) دائرہ عمل و اختیار
 (۵) جامعیت (۶) حدود میں آنے اور لٹے جانے کی صورت (۷) پھیلاؤ
 و دست -
 احاطہ کرنا - (۱) گھیرنا - حصار کرنا (۲) حد یا نغذہ محصور کر لینا (۳) کلیات و
 جزئیات کو پوری طرح جاننا یا سمجھنا - (۴) پوری طرح محیط یا حاوی
 ہونے کی کیفیت - جامعیت -
 احباب - (۱- ح- باب) (۲- ح- مذ) (۱) حسیب کی جمع - احباب - دوست - عزیز - پیارے
 احباب مذ (ح- باب) (۲- ح- مذ) (۱) حسیب کی جمع بہت سے دوست - یار - آشنا -
 احبار - (۱- ح- بار) (۲- ح- مذ) (۱) حبر کی جمع (۱) بیوروں کے علمائے عقائد
 لوگ -
 احتساب - (۱- ح- تب) (۲- ح- باس) (۳- ح- مذ) (۱) حسیب - روک (۲) بند پڑنا
 کرنا -
 احتجاب - (۱- ح- تب) (۲- ح- باب) (۳- ح- مذ) (۱) چھینا - پردہ میں ہونا جمع احتجاب
 احتجاب - (۱- ح- تب) (۲- ح- جاج) (۳- ح- مذ) (۱) حجاب - حجت - انکار - (انگ)

اچھے ہے - (۱) مزے میں رہے - آرام سے رہے (۲) سبحان اللہ - واہ کیا خوب
 اچھے سے پالا پڑا ہے - [شیل] بے ڈھب آدمی سے سابقہ ہوا ہے -
 اچھے کو اچھا بڑے کو بڑا لفظ مانا ہے - [شیل] نیک کو بڑا بھی نیک لفظ مانا
 ہے اور بد کو نیک بھی بد معلوم ہوتا ہے -
 اچھے کی صحبت بیٹھے کھائے ناگربان - بڑے کی صحبت بیٹھے کھائے
 ناگ اور کان - [شیل] اچھے لوگوں کی صحبت سے فائدہ پہنچتا ہے اور
 بڑوں کی صحبت سے نقصان -
 اچھے گھر بیگانہ دیا - [شیل] ایسے شخص سے معاملہ کیا ہے جس سے نفع
 کی جگہ نقصان ہی ہوگا -

اچھے وقت - عین ضرورت کے وقت - عین موقع پر -
 اچھے ہیں بر خدا کام نہ دلے - [شیل] ظاہر میں اچھے ہیں لیکن واسطہ پر
 پر حقیقت معلوم ہوتی ہے -
 اچھا - (۱- چھا) (۲- صفت) خواہش جہانت - مرضی - آرزو - تمنا
 اچھا لا - (۱- چھا لا) (۲- صفت) (۱) خوش - آبل (۲) تے - زد -
 اچھا لکھا - (۱- چھا لکھا) (۲- صفت) (۱) ناعتمد - چھال - بدکار عورت -
 اچھا لٹا - (۱- چھا لٹا) (۲- صفت) (۱) کسی چیز کو اوپر بھینکنا - اچکانا - اچھارنا -
 (۲) ظاہر کرنا - مشہور کرنا (۳) منتشر کرنا - بھینکنا - (۴) شہرت دینا (۵) ایک
 طرف سے دوسری طرف بھینکنا (۶) اچھارنا - اچھنڈ کرنا -
 اچھائی - (۱- چھا) (۲- صفت) (۱) اچھا میں جو لھو رتی سندرتا -
 اچھڑ - (۱- چھڑ) (۲- صفت) (۱) حرف لالول - لفظ - کلمہ -
 اچھل پڑنا - (۱- چھل - پڑنا) (۲- صفت) (۱) محبت - خوف یا خوشی کے مارے بے اختیار
 اپنی جگہ سے اچھل جانا غصے میں آگ بھجنا چپک اٹھنا (۲) جست کرنا
 کود پڑنا (۳) شدید جذبہ کا اظہار کرنا -

اچھیل کود - (۱- چھیل کود) (۲- صفت) (۱) کھیل کود - بل چل چھیلنا -
 اچھلنا - (۱- چھلنا) (۲- صفت) (۱) اچھلنا (۲) دھڑلنا (۳) مرض پلٹنا (۴)
 ناز و غرور کرنا - کسی کے بل بوتے پر اترنا - (۵) اوپر کی طرف جست کرنا
 کودنا (۶) دل کا دھڑلنا - (۷) کناروں سے نکل پڑنا چھلنا (۸) پانی کی
 سطح پر آ جانا (۹) غصے کا اظہار کرنا -
 اچھلنا کودنا - (۱) کود بھا نہ کرنا (۲) جوش میں آنا (۳) بہت غصہ ظاہر کرنا -
 اچھو - (۱- چھو) (۲- صفت) (۱) کھانسی جو سانس کی نالی میں پانی وغیرہ جلنے
 سے آنے لگتی ہے - پھندا -
 اچھو آنا (ہونا) کھلیں پانی یا کھانے کا پھندا پڑنا -
 اچھو آنی - (۱- چھو آنی) (۲- صفت) (۱) ایک قسم کا حویہ جو زچہ کو دیا جاتا ہے -
 اچھوت - (۱- چھوت) (۲- صفت) (۱) بغیر چھو ہوا - کورہ - تازہ (۲) [مذ]
 ہندو دین میں وہ ادنی تو ہیں جن کے ہاتھ کا چھو کھانا پانی اور پانی ذات کے
 ہندو انسان نہیں کرتے - خورد ر بھنگی - چمار وغیرہ -
 اچھوٹا - (۱- چھوٹا) (۲- صفت) (۱) بغیر چھو - بے ہاتھ لگا (۲) محض (۳)
 غیر مستعمل ہونے والوں - بغیر بننا ہوا - نیا (۴) نیاز نذر کا - دیوی دیوتا کے
 نام کا - پاک - سچرا (۵) اٹو کھا - نرالا - نادر (۶) تازہ ترین - ان سدا (۷)
 کنوارا (۸) پارسا - عقیف -

(Protest) مخالفانہ آواز اٹھانا۔ اظہارِ ناپسندیدگی کرنا۔

احتداد۔ (ع۔ مذ) حدت کی شدت۔ گرمی کی زیادتی۔

احترانہ۔ (اِح۔ م۔ ت۔ راز) [ع۔ ۱۔ مذ] پرہیز۔ کنارہ کشی۔ بچاؤ۔ جلیجھدی۔

احتراق۔ (اِح۔ م۔ ت۔ راق) [ع۔ ۱۔ مذ] (۱) گرمی کی شدت (۲) جلن۔ سوزش

جل جانے کی کیفیت (۳) بخوم کسی تیارے کا آفتاب کے ساتھ ایک بوج

میں بہنے کے سبب اُس کی شعاعوں میں چھپ جانا۔

احترام۔ (اِح۔ م۔ ت۔ رام) [ع۔ ۱۔ مذ] حرمت۔ عزت۔ توفیر۔ اَدب۔ بھگت۔

احْتِساب۔ (اِح۔ م۔ ت۔ ساب) [ع۔ ۱۔ مذ] حساب۔ جانچ۔ پڑتال۔ آزمائش۔

احْتِشَام۔ (اِح۔ م۔ ت۔ شام) [ع۔ ۱۔ مذ] شان۔ شوکت۔ ودبیر۔ لاؤ لشکر۔

احْتِضَار۔ (اِح۔ م۔ ت۔ ضار) [ع۔ ۱۔ مذ] (۱) حاضر آنا (۲) موت کا آنا۔

احْتِظَاظ۔ (اِح۔ م۔ ت۔ ظاظ) [ع۔ ۱۔ مذ] لذت اٹھانا۔ مزہ پانا۔

احْتِقَار۔ (ع۔ مذ) حقیر جاننا۔ نفارت۔

احْتِکَار۔ (اِح۔ م۔ ت۔ کار) [ع۔ ۱۔ مذ] ناجائز ذخیرہ اندوزی۔ اجناس باناری

کو ذخیرہ کرنا۔ اِنگ۔ (Hoarding)

احْتِلاَم۔ (اِح۔ م۔ ت۔ لام) [ع۔ ۱۔ مذ] خواب میں ناپاک ہونا۔ خواب میں

جامع کرنا۔ بدخواہی۔

احْتِمَال۔ (اِح۔ م۔ ت۔ مال) [ع۔ ۱۔ مذ] شک۔ شبہ۔ دہم۔ گمان۔ جمع۔ احتمالات۔

احتمالی قانونی۔ قانون کی رُو سے کوئی گمان یا قیاس۔

احْتِیاج۔ (اِح۔ م۔ ت۔ یاج) [ع۔ ۱۔ م۔ ت۔ حاجت۔ ضرورت۔ خواہش۔ چاہنا۔

احتیاج برآنا۔ مطلب تکلنا۔ ضرورت رفع کرنا۔

احتیاج رکھنا۔ کسی چیز کی حاجت رکھنا۔ ضرورت ہونا۔

احتیاج لانا۔ کسی بات کی درخواست کرنا

احتیاط۔ (اِح۔ م۔ ت۔ باط) [ع۔ ۱۔ م۔ ت۔ بچاؤ (۲) ہوشیاری۔ چوک

(۳) دور اندیشی (۴) توجہ۔ تجرم (۵) روک تھام۔ ضبط (۶) بصیرت

عاقبت اندیشی (۷) شیطان سے بچنا۔ حفاظت۔

احتیاط برتنا۔ (معاورہ) احتیاط سے کام لینا۔ دور اندیشی سے کام لینا۔

احتیاط رکھنا۔ (معاورہ) دیکھ بھال کرنا۔

احتیاطاً۔ (اِح۔ م۔ ت۔ یا۔ ظن) [ع۔ ۱۔ ص۔ ف] احتیاط کے طور پر۔ خبرداری سے۔

ہوشیاری سے۔ دُعا اندیشی سے۔

احْجَاؤ۔ (اِح۔ ج۔ ج۔ ج) [ع۔ ۱۔ مذ] مجھ کی جمع۔ پتھر۔

أَحَدٌ۔ (أ۔ ح۔ د) [ع۔ ۱۔ ص۔ ف] ایک۔ اکیلا۔ بیگانہ۔ لائٹریک (۲) عدالتی

کاصفاقی نام۔ جمع۔ اِحاد

أَحَدٌ۔ (أ۔ ح۔ د) [ع۔ ۱۔ مذ] مدینہ منورہ کے قریب ایک پہاڑ جہاں آنحضرت

صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کئی دیگر صحابہ جگ ہوئی تھی۔

احْداث۔ (اِح۔ د۔ ا۔ ث) [ع۔ ۱۔ مذ] نئی بات نکالنا۔

أَحْدَى۔ (أ۔ ح۔ د) [ع۔ ۱۔ مذ] (۱) یکا (۲) جلال الدین اکبر کے وہ ملازم جو

مالگداری وصول کرنے کا کام کرتے تھے۔ (۳) [ص۔ ف] سست۔

کابل۔ جمع۔ اَحْدِیَان

أَحْدَى تَبِیل۔ ٹھس۔ ٹھٹھا۔ بہت ہی سست۔ کابلوں کا کابل۔

أَحْدَى تَبِیل۔ (أ۔ ح۔ د) [ع۔ ۱۔ م۔ ت۔ یث] [ع۔ ۱۔ م۔ ت۔ یث] ایک ہونا۔ یکتا۔

أَحْرَار۔ (أ۔ ح۔ ر) [ع۔ ۱۔ مذ] حرکی جمع۔ آزاد لوگ۔

أَحْرَار۔ (اِح۔ ر) [ع۔ ۱۔ مذ] معفو نظر رکھنا۔ بچانے رکھنا۔ نگاہ رکھنا۔

أَحْرَاق۔ (اِح۔ م۔ ت۔ راق) [ع۔ ۱۔ مذ] جلانا۔ جلا

أَحْرَام۔ (اِح۔ م۔ ت۔ رام) [ع۔ ۱۔ مذ] (۱) حج یا عمرہ کرنے والوں کے لیے مقررہ

جگہوں سے چند جائز باقوں کا اپنے اُور حرام کر لینا (۲) بدن ڈھانکنے

کے لیے دو بے سلی چادریں استعمال کرنا۔ مطلقاً سفر کا ارادہ۔ تعصیب۔

أَحْرَامِ بَانِدْھِنَا۔ حرم میں جانے کی شرطیں بجا لانا۔ خانہ کعبہ کے قریب پہنچ کر

بعض حلال اور مباح چیزوں کو اپنے اُور حرام کر لینا۔ بے سلی چادریں پہننا۔

أَحْزَاب۔ (اِح۔ ز۔ اب) [ع۔ ۱۔ مذ] حزب کی جمع (۱) گروہ۔ جماعتیں (۲) فریق

أَحْزَان۔ (اِح۔ ز۔ ان) [ع۔ ۱۔ مذ] حزن کی جمع۔ غم۔ اندوہ۔ رنج۔

أَحْزَم۔ (أ۔ ح۔ ز۔ م) بہت دُعا اندیش۔ نہایت محتاط۔ ہوشیار۔

أَحْسَاب۔ (اِح۔ س۔ اس) [ع۔ ۱۔ مذ] حواسِ خمسہ میں سے کسی جس کے ذریعے

کچھ معلوم کرنا۔

أَحْسَابِ بَرَزَوِی۔ (ص۔ ف۔ مذ) (نفسیات) ایک عرض اپنے آپ کو دُوسروں سے لائٹ رکھنا

أَحْسَابِ کَمْتَرِی۔ (نفسیات) ایک بیماری۔ اپنے آپ کو دُوسروں سے کھٹیا کھٹیا

خود اعتمادی نہ ہونا۔

أَحْسَابِ مَحْرُومِی۔ (ص۔ ف) ناکامی یا خاطر خواہ کامیابی نہ ہونے کے باعث پیدا

ہو جانے۔

أَحْسَان۔ (اِح۔ س۔ ان) [ع۔ ۱۔ مذ] (۱) نیکی۔ اچھا سلوک۔ بھلائی۔ مہربانی (۲)

برتاؤ (۳) اچھے سلوک کا اعتراف۔ ممنونیت (۴) عمل خیر۔

أَحْسَانِ آتَانَا۔ سلوک کے بدلے سلوک کرنا۔ بھلائی کا عوض دینا۔

أَحْسَانِ اَٹھَانَا۔ ممنون ہونا۔ احسان لینا۔ شکر گزار بننا۔ منت کش ہونا۔

أَحْسَانِ تَجَرْتَانَا۔ راپی نیکی کا ذکر زبان پر لانا۔ اپنا سلوک یاد دلانا۔

أَحْسَانِ دَھَرْنَا۔ رکھنا۔ ممنون بنانا۔ شکر گزار بنانا۔

أَحْسَانِ سِرِّ پَر ہونا۔ مہربانی کا بار ہونا۔

أَحْسَانِ عَظِیْم۔ بہت بڑا احسان۔

أَحْسَانِ فَرَامُوش۔ احسان بھلا دینے والا۔

أَحْسَانِ کَا عَوْض۔ احسان ہے (مثل) نیکی کا بدلہ نیکی ہے۔

أَحْسَانِ کَرْنَا۔ سلوک کرنا۔ بھلائی یا نیکی کرنا۔

أَحْسَانِ کھینچنا۔ احسان لینا۔

أَحْسَانِ گروں سے اُتارنا۔ احسان کا بدلہ دے دینا۔

أَحْسَانِ لیجئے جہان کا نہ احسان لیجئے شاہ جہان کا۔ [مثل] اُدنیابہر کا

أَحْسَانِ اَٹھالینا چاہیے مگر کسی دولت مند کا یا امیر رشتہ دار کا احسان

نہ اٹھانا چاہئے۔

أَحْسَانِ لینا۔ احسان اٹھانا۔ شکر گزار بننا۔

أَحْسَانِ ماننا۔ ممنون ہونا۔ شکر گزار ہونا۔

أَحْسَانِ مند۔ ممنون۔ شکر گزار۔ احسان ماننے والا۔

أَحْسَانِ مندی۔ احسان ماننا۔

أَحْسَانِ ناشناس۔ احسان فراموش۔ جو احسان نہ لے۔ ناشکر۔

أَحْسَانِ ناشناسی۔ احسان فراموشی۔ احسان نہ ماننا۔

آختہ - (ع۔ ا۔ مٹ) میں ہمیشہ۔ جمع : اخوات
 اختلاف - (ا۔ ب۔ ت۔ تام) (ع۔ ا۔ مذ) خاتمہ۔ آخر۔ انجام۔
 اختلاف بر (آنا) پہنچنا۔ تمام ہونے کے قریب ہونا۔
 اختلاف کو پہنچنا۔ پورا ہونا ختم ہونا۔

اختتامیہ - (ع۔ مذ) وہ مختصر مضمون جو آخر میں ہوتا ہے جس میں مندرجات کے
 تمام پہلوؤں کی جانب اشارہ کر کے بات کو انجام تک پہنچایا جاتا ہے۔
 اختر - (ا۔ ب۔ ت) (ع۔ ا۔ مذ) نارا۔ ستارا۔ ستیارہ۔ جمع : اختران۔

اختر ذوالدار - دم دار ستارہ۔
 اختر سوختہ - جلا ہوا ستارہ۔ بڑی قدر پر منحوس نصیبہ۔
 اختر شماری - تہلے گنا۔ نظام میں جگانا بے چینی سے جاگ کر رات کاٹنا۔
 اختر کشناس - ستاروں کی چال کا علم جاننے والا۔ نجومی منجم۔
 اختر چلنا - (محاورہ) نصیب جگانا۔ دن بھرنا۔

اختراع - (ا۔ ب۔ ت۔ راع) (ع۔ ا۔ مذ) (۱) نئی بات نکالنا۔ ایجاد کرنا طبیعت
 سے نئی بات پیدا کرنا (۲) ایجاد۔ جمع : اختراعات۔

اختر و اختر - (ا۔ ب۔ ت۔ راع) (ع۔ ا۔ مذ) (۱) نئی بات نکالنا۔ ایجاد کرنا طبیعت
 سے نئی بات پیدا کرنا (۲) ایجاد۔ جمع : اختراعات۔

اختصار - (ا۔ ب۔ ت۔ صار) (ع۔ ا۔ مذ) کوتاہی کی چھوٹا پن۔ خلاصہ۔ طوالت کی ضد
 اختصار نویس - اشارات میں لکھنے والا۔ مختصر نویس۔

اختصار نویسی - (صفت۔ مٹ) اشارات اور علامات میں لکھنے کا فن۔ (انگ)
 (Short Hand Writing)

اختصاص - (ا۔ ب۔ ت۔ صاص) (ع۔ ا۔ مذ) خاص کرنا۔ خصوصیت رکھنا۔
 خاص ہونا۔ خصوصیت مہارت رکھنا۔ کسی کام میں امتیاز و برتری۔ ماہر خصوصی۔

اختصاصی - (ع۔ ص) کسی فن یا شعبہ میں خاص مہارت رکھنے والا۔ ماہر خصوصی
 (انگ) (Specialization)

اختصاصی - (ع۔ ص) کسی فن یا شعبہ میں خاص مہارت رکھنے والا۔ ماہر خصوصی
 (انگ) (Specialist)

اختصاص - (ع۔ مذ) خلعت۔ پوشی۔ فساد۔
 اختلاج - (ا۔ ب۔ ت۔ لاج) (ع۔ ا۔ مذ) پھڑکنے۔ دھڑکنے۔ بے چین ہونا۔ بے قراری
 ہونا (عام طور پر دل کا دھڑکنے کا مراد ہے)

اختلاج قلب - ہول دہی۔ ایک مرض جس میں دل بہت زور زور سے
 دھڑکتا ہے۔

اختلاط - (ا۔ ب۔ ت۔ لاط) (ع۔ ا۔ مذ) (۱) ربط ضبط میل جول۔ پیار۔ اخلاص
 میل ملاپ (۲) محبت کی گرجوشی۔ پھیر چھاؤ۔
 اختلاط کی باتیں۔ پیارا و محبت کی باتیں۔

اختلاف - (ا۔ ب۔ ت۔ لات) (ع۔ ا۔ مذ) (۱) ناموافقیت کرنا۔ خلاف ہونا
 (۲) فرق۔ تفاوت (۳) عداوت۔ جگڑ۔ ا۔ ب۔ ت۔ دشمنی۔ (۴) جھگڑ۔
 تعصب۔ جمع : اختلافات۔

اختلاف بیانی - (صفت۔ مٹ) جھوٹ۔ غلط بیانی۔ کذب۔
 اختلاف رائے - رائے کی ناموافقیت۔

اختلاف طبائع - طبیعتوں کی ناموافقیت۔ طبیعتوں کا فرق۔
 اختلافی - (ع۔ مٹ) وہ بات جس میں ایک سے زیادہ اقوال اور آراء ہوں۔

اختلال - (ا۔ ب۔ ت۔ لال) (ع۔ ا۔ مذ) خلل ڈالنا۔ خلل پڑنا۔
 اختلال حواس - حواس میں فتور آنا۔ بدحواسی۔

اختناق - (ا۔ ب۔ ت۔ ناق) (ع۔ ا۔ مذ) دم گھٹنا۔ خلل میں دم ہو جانا خناق۔
 اختناق الریح - (ا۔ ب۔ ت۔ ننا۔ ق۔ ریح) (ع۔ ا۔ مذ) ایک دم جس سے بچہ دانی کا
 منہ بند ہو جاتا ہے۔ بہ شیریا۔

اختلاج - (ا۔ ب۔ ت۔ لاج) (ع۔ ا۔ مذ) (۱) نئی بات نکالنا۔ ایجاد کرنا طبیعت
 سے نئی بات پیدا کرنا (۲) ایجاد۔ جمع : اختراعات۔

اختلاج - (ا۔ ب۔ ت۔ لاج) (ع۔ ا۔ مذ) (۱) نئی بات نکالنا۔ ایجاد کرنا طبیعت
 سے نئی بات پیدا کرنا (۲) ایجاد۔ جمع : اختراعات۔

اختلاج - (ا۔ ب۔ ت۔ لاج) (ع۔ ا۔ مذ) (۱) نئی بات نکالنا۔ ایجاد کرنا طبیعت
 سے نئی بات پیدا کرنا (۲) ایجاد۔ جمع : اختراعات۔

اختلاج - (ا۔ ب۔ ت۔ لاج) (ع۔ ا۔ مذ) (۱) نئی بات نکالنا۔ ایجاد کرنا طبیعت
 سے نئی بات پیدا کرنا (۲) ایجاد۔ جمع : اختراعات۔

اختلاج - (ا۔ ب۔ ت۔ لاج) (ع۔ ا۔ مذ) (۱) نئی بات نکالنا۔ ایجاد کرنا طبیعت
 سے نئی بات پیدا کرنا (۲) ایجاد۔ جمع : اختراعات۔

اختلاج - (ا۔ ب۔ ت۔ لاج) (ع۔ ا۔ مذ) (۱) نئی بات نکالنا۔ ایجاد کرنا طبیعت
 سے نئی بات پیدا کرنا (۲) ایجاد۔ جمع : اختراعات۔

اختلاج - (ا۔ ب۔ ت۔ لاج) (ع۔ ا۔ مذ) (۱) نئی بات نکالنا۔ ایجاد کرنا طبیعت
 سے نئی بات پیدا کرنا (۲) ایجاد۔ جمع : اختراعات۔

اختلاج - (ا۔ ب۔ ت۔ لاج) (ع۔ ا۔ مذ) (۱) نئی بات نکالنا۔ ایجاد کرنا طبیعت
 سے نئی بات پیدا کرنا (۲) ایجاد۔ جمع : اختراعات۔

اختلاج - (ا۔ ب۔ ت۔ لاج) (ع۔ ا۔ مذ) (۱) نئی بات نکالنا۔ ایجاد کرنا طبیعت
 سے نئی بات پیدا کرنا (۲) ایجاد۔ جمع : اختراعات۔

اختلاج - (ا۔ ب۔ ت۔ لاج) (ع۔ ا۔ مذ) (۱) نئی بات نکالنا۔ ایجاد کرنا طبیعت
 سے نئی بات پیدا کرنا (۲) ایجاد۔ جمع : اختراعات۔

اختلاج - (ا۔ ب۔ ت۔ لاج) (ع۔ ا۔ مذ) (۱) نئی بات نکالنا۔ ایجاد کرنا طبیعت
 سے نئی بات پیدا کرنا (۲) ایجاد۔ جمع : اختراعات۔

اختلاج - (ا۔ ب۔ ت۔ لاج) (ع۔ ا۔ مذ) (۱) نئی بات نکالنا۔ ایجاد کرنا طبیعت
 سے نئی بات پیدا کرنا (۲) ایجاد۔ جمع : اختراعات۔

اختلاج - (ا۔ ب۔ ت۔ لاج) (ع۔ ا۔ مذ) (۱) نئی بات نکالنا۔ ایجاد کرنا طبیعت
 سے نئی بات پیدا کرنا (۲) ایجاد۔ جمع : اختراعات۔

اختلاج - (ا۔ ب۔ ت۔ لاج) (ع۔ ا۔ مذ) (۱) نئی بات نکالنا۔ ایجاد کرنا طبیعت
 سے نئی بات پیدا کرنا (۲) ایجاد۔ جمع : اختراعات۔

اختلاج - (ا۔ ب۔ ت۔ لاج) (ع۔ ا۔ مذ) (۱) نئی بات نکالنا۔ ایجاد کرنا طبیعت
 سے نئی بات پیدا کرنا (۲) ایجاد۔ جمع : اختراعات۔

اختلاج - (ا۔ ب۔ ت۔ لاج) (ع۔ ا۔ مذ) (۱) نئی بات نکالنا۔ ایجاد کرنا طبیعت
 سے نئی بات پیدا کرنا (۲) ایجاد۔ جمع : اختراعات۔

اختلاج - (ا۔ ب۔ ت۔ لاج) (ع۔ ا۔ مذ) (۱) نئی بات نکالنا۔ ایجاد کرنا طبیعت
 سے نئی بات پیدا کرنا (۲) ایجاد۔ جمع : اختراعات۔

اختلاج - (ا۔ ب۔ ت۔ لاج) (ع۔ ا۔ مذ) (۱) نئی بات نکالنا۔ ایجاد کرنا طبیعت
 سے نئی بات پیدا کرنا (۲) ایجاد۔ جمع : اختراعات۔

اخذ کرنا۔ لینا۔ چھیننا۔ اختیار کرنا۔ بات میں سے بات لگانا۔
 آخری۔ (آخ۔ را) [ع۔ امث] (۱) آخری (۲) پچھلی
 اخراج۔ (ع۔ مذ) خروج کی جمع۔ خروج اخراجات۔
 اخراج۔ (إخ۔ راج) [ع۔ ا۔ مذ] (۱) نکاس (۲) خرچ۔ صرف (۳)
 شہرید کرنا۔ باہر کرنا۔ الگ کرنا۔
 اخراجات۔ (آخ۔ را۔ جات) [ع۔ ا۔ مذ] اخراج کی جمع۔ بہت سے خرچ
 اخروط۔ (أخ۔ روث) [ع۔ ا۔ مذ] ایک قسم کا میوہ
 آخروی۔ (أخ۔ روی) [ع۔ صفت] آخرت کی بابت۔ اگلے جہان کے متعلق۔
 اخصل۔ (أخصل۔) [ع۔ صفت] بڑا غریب۔ بڑا کمزور۔
 اخصل۔ (أخصل۔) [ع۔ صفت] (۱) نہایت خصوصیت والا (خاص)۔ (۲)
 نہایت اعلیٰ نہایت افضل۔
 اخضر۔ (أخضر۔) [ع۔ صفت] ہرا۔ سبز۔
 اخضری۔ (أخضر۔ ی) [ع۔ صفت] ہرے رنگ کا۔ اخضر سے منسوب۔
 اخضا۔ (أخضا۔) [ع۔ ا۔ مذ] پوشیدہ کرنا چھپانا۔
 اخفاف۔ (أخفاف۔) [ع۔ صفت] ہلکا کرنا۔ سبک بار ہونا۔
 اخشن۔ (أخشن۔) [ع۔ صفت] (۱) چنڈھا (۲) ایک بہت بڑے نحوی ابرو
 سعید کا لقب۔ کمزور نظر والا۔
 اخگر۔ (أخگر۔) [ع۔ صفت] چنگاری۔ انگار۔ جمع : انگران۔ اخگر ہا۔
 اخلاص۔ (إخ۔ لاص) [ع۔ ا۔ مذ] (۱) خلوص۔ خالص۔ پاک صاف (۲) جھوٹ
 بے بیاداعت خالص (۳) دوستی۔ محبت۔ پیار (۴) میل ملاپ۔ ربط و ضبط
 ارتباط (۵) قرآن مجید کی ایک سورت کا نام۔ (فعل جہالتہ۔)
 اخلاص۔ انگریز۔ خلوص والا۔ سچی۔
 اخلاص پڑھانا۔ (مجادد) آپس میں پیار و محبت کو بڑھانا۔ محبت میں اضافہ کرنا۔
 اخلاص ہو کرنا۔ دوستی کرنا۔ ربط پیدا کرنا
 اخلاص چارگانہ۔ (صفت) مذ) انگریز کے دین الہی میں شامل ہونے کی چار شرائط
 ترک مال۔ ترک جان۔ ترک ناموس اور ترک دین۔
 اخلاص رکھنا۔ محبت رکھنا۔ دوستی رکھنا۔ خلوص برتننا۔
 اخلاص رہنا۔ محبت اور خصوصیت رہنا۔
 اخلاص کرنا۔ دوستی کرنا۔ محبت کرنا۔ ربط حاصل کرنا۔
 اخلاص مند۔ خلوص۔ دوست۔ غیر خواہ۔ یا رصادق۔
 اخلاص مندی۔ غیر خواہی کے ساتھ دوستی۔ خلوص۔
 اخلاط۔ (أخ۔ لاط) [ع۔ ا۔ مذ] (طلب) خلط کی جمع۔ چاروں خلطیں یعنی سونا
 صفرا۔ بلغم۔ خون۔
 اخلاط الیچہ (طلب) چار خلطیں یعنی صفرا۔ خون۔ بلغم۔ سودا۔
 اخلاط فاسدہ۔ بڑے ہونے خلط۔
 اخلاف۔ (أخ۔ لاف) [ع۔ ا۔ مذ] خلف کی جمع (۱) پیچھے آنے والے
 بعد میں آنے والے (۲) اولاد
 اخلاق۔ (أخ۔ لاق) [ع۔ ا۔ مذ] خلق کی جمع (۱) پسندیدہ عادتیں۔ اچھی
 خصلیں (۲) خوش خوی۔ اچھا برتاؤ۔ ملنساری۔ کشادہ پیشانی۔ خاطر
 مدارات۔ آداب و بھگت۔ (۳) فلسفہ و علم عرب میں تہذیب یعنی ادرسی

مدن پر بحث کی جاتی ہے۔ علم الاخلاق۔ اخلاقیات۔
 اخلاقی حسنہ۔ عمدہ عادتیں۔
 اخلاقی سوز۔ شرافت کے منافی کام۔ بے حیائی اور بے شری کی عادتیں۔
 اخلاق خاضلہ۔ اچھی عادتیں۔
 اخلاقی معاشرت۔ باہم مل جل کر رہنے سنے کے آداب۔
 اخلاقیات۔ (أخ۔ لاقیات) [ع۔ ا۔ مذ] اصول۔ اخلاق۔ علم الاخلاق
 تعلیم و تربیت کا وہ شعبہ جس کے ذریعے اخلاق کی تربیت دی جاتی ہے
 اخلاقیات۔ (أخ۔ لاق۔ یات) [ع۔ صفت] معیار اخلاق۔ اخلاقی اصول
 کا برتاؤ۔
 اخنوخ۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا نام۔
 اخنی۔ (أخنی۔) [ع۔ صفت] (۱) حق۔ امث [یعنی۔]
 اخنی یعنی۔ (أخنی۔) [ع۔ صفت] ذلیل۔ بد وضع اور بد چل عورت۔
 اخوان۔ (أخ۔ وان) [ع۔ ا۔ مذ] [کسبر اول] اخ کی جمع۔ بھائی۔ برادران۔
 سگے بھائی۔ (بیغ اول) اخ کا تشبیہ۔ دو بھائی۔
 اخوان المشاطین۔ پیشانی کے بھائی بندہ بہت زیادہ شری لوگ۔
 اخوان الصفا۔ بھلے لوگ۔ اچھے لوگ۔ پاک دل لوگ۔ برادر۔
 اخوت۔ (أخوت۔) [ع۔ صفت] برادری۔ بھائی بندی۔ بھائی چارہ۔
 اخنی۔ (أخنی۔) [ع۔ صفت] امرا۔ بھائی۔
 اخبار۔ (أخ۔ بار) [ع۔ ا۔ مذ] اخبار کی جمع۔ نیک لوگ۔ پیارے (۲) شہر سے پچھلے والے لوگ۔
 اخباری۔ (أخ۔ یانی) [ع۔ صفت] وہ بھائی ہیں جن کے باپ الگ الگ
 ماں ایک ہو۔
 اخیر۔ (أخیر۔) [ع۔ صفت] پچھلا۔ آخرا۔ آخری۔ تمام۔ انتہا۔ حد۔
 اخیر کو۔ انجام کار
 اخیر وقت۔ رہ چڑھ کے خاتمے کا وقت۔ بڑھاپے کا زمانہ (تاریخ) نزع کا وقت۔
 اخیر ہونا۔ (مجادد) ختم ہونا۔ تمام ہونا۔

۱-د

ادا۔ (أ۔ ادا) [ع۔ صفت] (۱) امانت۔ ناز (۲) امانت۔ ناز (۳) امانت۔ ناز (۳) امانت۔ ناز
 اسلوب۔ روش (۴) طریقہ۔ ڈھنگ (۵) عادت (۶) امانت۔ ناز
 عمن کی دلچسپی۔
 ادا بند۔ اس سخن کو کہتے ہیں جو معشوق کی ادا میں کلام میں اس طرح باندھے
 کہ آنکھوں میں تصویر چھج جائے۔
 ادا بندی۔ معشوق کی ادا میں کلام میں باندھا۔
 ادا دکھانا۔ معشوقانہ انداز کے ساتھ ناز کرنا۔
 ادا شناس۔ ادا فہم۔ ایسا اشارے یا ترسیے سے عہدہ پہچاننے والا۔
 ادا کار۔ ڈراے یا فہم میں کام کرنے والا۔ نقال۔ سوانگیا۔ آئینہ۔ (۲) ڈراے
 میں کام کرنے والی عورت۔ ایچٹرس۔
 ادا کا زمانہ۔ ادا کاری سے منسوب۔ ایچٹنگ سے متعلق۔
 ادا کاری (۱) کسی کی نقل اتارنا۔ ڈراے میں کام کرنا (۲) ایچٹنگ

اداکرنا - (معاورہ) ناز و انداز کرنا۔

ادانگنا - (معاورہ) ناز و انداز ایجاد کرنا۔

ادانگنا - (معاورہ) معشوقانہ شان پیدا کرنا۔ بائیں پیدا ہونا۔

اداء - (ا۔ و۔ ا۔ ع۔ ا۔ مٹ) (۱) پورا کرنا (۲) بیباق (۳) دینا۔ (۴) امارنا (۵) بیان۔

اداشدہ حصے - کسی لمبید کمپنی کے وہ حصے جن کی رقم ادا کر دی گئی ہو۔

اداشدہ سرمایہ - کسی لمبید کمپنی کے اعلان شدہ سرمائے کا وہ حصہ جو جمع ہو چکا ہو۔

اداکرنا - (۱) بے باق کرنا۔ چچکانا (۲) بجالانا (۳) عمل میں لانا (۴) لکھنا

(۵) کہنا (۶) بھانڈنا (۷) قاعدے سے گانا (۸) پڑھنا (۹) ناملہ

اور فرات کے مطابق پڑھنا (۱۰) معشوقانہ حرکات کرنا (فقہ)

مقررہ وقت پر عبادت کرنا۔

اداکندہ - رقم یا محصول ادا کرنے والا

ادائے دین - قرض کی ادائیگی

ادائے شہادت - گواہی دینا۔

ادائے لگان - لگان ادا کرنا۔

ادائے مال گزاری - لگان ادا کرنا۔

ادارات - (۱) ادارہ (۲) ادارہ کی جمع - ہمت سے ادارے

ادارات قانونی - کسی قانون کے تحت قائم کی ہوئی مجلسیں۔

ادارت - (۱) ادارت (۲) ع۔ ا۔ مٹ (۱) ایڈیٹری - جریدہ نگاری (۲)

رسالہ - اخبار - کتاب وغیرہ مرتب کرنا۔

ادارہ - (۱) ادارہ (۲) دفتر - محکمہ (۳) نظام - ضبط - سرنٹ

ادارہ جلیہ - دفتر پوسٹل بورڈ - سٹی کارپوریشن۔

اداریہ - (۱) ادارہ (۲) ع۔ ا۔ مٹ (۱) اخبار کے ایڈیٹر کا اپنا خاص مضمون۔

مقالہ افتتاحیہ - ایڈیٹریل - ایڈنگ آرٹیکل (۱) (Editorial)

اداس - (ا۔ و۔ ا۔ مٹ) (۱) معصوم - غمگین - رنجیدہ - سوگوار (۲) دیران

سونا (۳) بے رونق - پھیکا پھیکا۔

اداس کرنا - افسردہ کرنا - رنجیدہ کرنا۔

اداس ہونا - (۱) رنجیدہ اور غمگین ہونا (۲) بے رونق ہونا۔

اداسا - (ا۔ و۔ ا۔ مٹ) (۱) معصوم (۲) آزاد و فقرا اپنی اصطلاح میں

انہیں بسترے اور اوڑھنے بچھنے کو کہتے ہیں (۲) تیار (۳)

اوڑھنا بچھونا۔

اداسا کتنا - سامان سحر باندھنا۔ بوری بستر باندھنا۔ مادہ سفر کرنا۔

اداسا کھینچنا - ہر طرف سے قطع تعلق کر کے ایک طرف دھیان لگانا۔

یک سو ہونا۔

اداسی - (ا۔ و۔ ا۔ مٹ) (۱) غمگینی (۲) دیرانی - بے رونقی۔

(۳) فقروں کا ایک فرقہ جو گورڈنا تک صاحب کے بیٹے کا پیر و جی

(۴) فقیر - جوگی۔

اداسی پریشان - پریشانی ظاہر ہونا - بے رونق معلوم ہونا۔

اداسی پھیلنا - سناٹا ہو جانا - بے رونق ہونا۔

اداسی چھانا - اداسی کی حالت طاری ہونا۔

ادام - (ع۔ و۔ ا۔ مٹ) (۱) شوریہ - سالن

ادام - (ا۔ و۔ ا۔ مٹ) (۱) ع۔ ا۔ مٹ (۲) ہمیشہ رکھے۔ ہمیشہ زندہ رکھے۔

ادام اللہ فیہم - اللہ تعالیٰ ان کے فیض کو ہمیشہ رکھے۔

ادا ہٹ - (ا۔ و۔ ا۔ مٹ) (۱) ع۔ ا۔ مٹ (۲) بیگنی رنگ۔

ادا ہٹ - (ا۔ و۔ ا۔ مٹ) (۱) ع۔ ا۔ مٹ (۲) بیگنی رنگ۔

ادا ہٹ - (ا۔ و۔ ا۔ مٹ) (۱) ع۔ ا۔ مٹ (۲) بیگنی رنگ۔

ادا ہٹ - (ا۔ و۔ ا۔ مٹ) (۱) ع۔ ا۔ مٹ (۲) بیگنی رنگ۔

ادا ہٹ - (ا۔ و۔ ا۔ مٹ) (۱) ع۔ ا۔ مٹ (۲) بیگنی رنگ۔

ادا ہٹ - (ا۔ و۔ ا۔ مٹ) (۱) ع۔ ا۔ مٹ (۲) بیگنی رنگ۔

ادا ہٹ - (ا۔ و۔ ا۔ مٹ) (۱) ع۔ ا۔ مٹ (۲) بیگنی رنگ۔

ادا ہٹ - (ا۔ و۔ ا۔ مٹ) (۱) ع۔ ا۔ مٹ (۲) بیگنی رنگ۔

ادا ہٹ - (ا۔ و۔ ا۔ مٹ) (۱) ع۔ ا۔ مٹ (۲) بیگنی رنگ۔

ادا ہٹ - (ا۔ و۔ ا۔ مٹ) (۱) ع۔ ا۔ مٹ (۲) بیگنی رنگ۔

ادا ہٹ - (ا۔ و۔ ا۔ مٹ) (۱) ع۔ ا۔ مٹ (۲) بیگنی رنگ۔

ادا ہٹ - (ا۔ و۔ ا۔ مٹ) (۱) ع۔ ا۔ مٹ (۲) بیگنی رنگ۔

ادا ہٹ - (ا۔ و۔ ا۔ مٹ) (۱) ع۔ ا۔ مٹ (۲) بیگنی رنگ۔

ادا ہٹ - (ا۔ و۔ ا۔ مٹ) (۱) ع۔ ا۔ مٹ (۲) بیگنی رنگ۔

ادا ہٹ - (ا۔ و۔ ا۔ مٹ) (۱) ع۔ ا۔ مٹ (۲) بیگنی رنگ۔

ادا ہٹ - (ا۔ و۔ ا۔ مٹ) (۱) ع۔ ا۔ مٹ (۲) بیگنی رنگ۔

ادا ہٹ - (ا۔ و۔ ا۔ مٹ) (۱) ع۔ ا۔ مٹ (۲) بیگنی رنگ۔

ادا ہٹ - (ا۔ و۔ ا۔ مٹ) (۱) ع۔ ا۔ مٹ (۲) بیگنی رنگ۔

ادا ہٹ - (ا۔ و۔ ا۔ مٹ) (۱) ع۔ ا۔ مٹ (۲) بیگنی رنگ۔

ادا ہٹ - (ا۔ و۔ ا۔ مٹ) (۱) ع۔ ا۔ مٹ (۲) بیگنی رنگ۔

ادا ہٹ - (ا۔ و۔ ا۔ مٹ) (۱) ع۔ ا۔ مٹ (۲) بیگنی رنگ۔

ادا ہٹ - (ا۔ و۔ ا۔ مٹ) (۱) ع۔ ا۔ مٹ (۲) بیگنی رنگ۔

ادا ہٹ - (ا۔ و۔ ا۔ مٹ) (۱) ع۔ ا۔ مٹ (۲) بیگنی رنگ۔

ادا ہٹ - (ا۔ و۔ ا۔ مٹ) (۱) ع۔ ا۔ مٹ (۲) بیگنی رنگ۔

ادا ہٹ - (ا۔ و۔ ا۔ مٹ) (۱) ع۔ ا۔ مٹ (۲) بیگنی رنگ۔

ادا ہٹ - (ا۔ و۔ ا۔ مٹ) (۱) ع۔ ا۔ مٹ (۲) بیگنی رنگ۔

ادا ہٹ - (ا۔ و۔ ا۔ مٹ) (۱) ع۔ ا۔ مٹ (۲) بیگنی رنگ۔

ادا ہٹ - (ا۔ و۔ ا۔ مٹ) (۱) ع۔ ا۔ مٹ (۲) بیگنی رنگ۔

ادا ہٹ - (ا۔ و۔ ا۔ مٹ) (۱) ع۔ ا۔ مٹ (۲) بیگنی رنگ۔

ادا ہٹ - (ا۔ و۔ ا۔ مٹ) (۱) ع۔ ا۔ مٹ (۲) بیگنی رنگ۔

ادا ہٹ - (ا۔ و۔ ا۔ مٹ) (۱) ع۔ ا۔ مٹ (۲) بیگنی رنگ۔

ادا ہٹ - (ا۔ و۔ ا۔ مٹ) (۱) ع۔ ا۔ مٹ (۲) بیگنی رنگ۔

ادا ہٹ - (ا۔ و۔ ا۔ مٹ) (۱) ع۔ ا۔ مٹ (۲) بیگنی رنگ۔

ادا ہٹ - (ا۔ و۔ ا۔ مٹ) (۱) ع۔ ا۔ مٹ (۲) بیگنی رنگ۔

ادا ہٹ - (ا۔ و۔ ا۔ مٹ) (۱) ع۔ ا۔ مٹ (۲) بیگنی رنگ۔

ادا ہٹ - (ا۔ و۔ ا۔ مٹ) (۱) ع۔ ا۔ مٹ (۲) بیگنی رنگ۔

کی پائنتی کی طرف اس کے کنارہ ہنسنے کے لیے ڈالتے ہیں۔
 آڈیویہ - (اڈویہ - (ع-امث) دوا کی جمع۔ دوائیں۔
 آڈھ - (ع-صفت) آدھے کا محض نصف۔
 آڈھ کھڑ - نصف فاصلہ۔ درمیان کا حصہ۔ آڈھڑ - آڈھ بیج۔
 آڈھ بیج - درمیان۔
 آڈھ پٹی - ایک سیر کے اٹھویں حصے کا تول۔ دو چھینکی۔ دس بھری۔ دو چیا۔
 آڈھ پڑا۔
 آڈھ جل لگری جھلکت جاٹے۔ [مثال] کم ظرف اور کمینہ آدمی نظری کی
 عزت مل جلنے پر اڑانے لگتا ہے۔

آڈھ سیرا - نصف سیر کا باٹ۔ دو پانچ کا وزن۔
 آڈھ کچا - جو پوری طرح پکا ہوا نہ ہو۔ آدھا پکا ہوا۔
 آڈھ کچرا - (۱) آدھرا جو پورا نہ ہو۔ گڈ پھل۔ آدھا کچا آدھا پکا پھل (۲)
 آدھا کٹا اور سیسا ہوا۔ دردرا۔ آدھا کٹا
 آدھ کچری - آدھ کچرا کی تانبٹ۔
 آدھ کچلا - آدھا کٹا ہوا۔ نیم کوڈنہ۔
 آدھ کھلا - آدھا کھلا ہوا۔ نیم شگفتہ۔
 آدھ کھلا - آدھا کھلا ہوا۔
 آدھ گلا - جو پوری طرح گلانا ہو۔
 آدھ مڑا - آدھ مڑوا - آدھا مڑا ہوا۔ نیم جان۔
 آدھا - (اڈھا - (ع-صفت) (۱) غیر معینہ مقدار کا۔ نصف (۲) [مثال] نمرائ
 کی آدھی نزل (۳) لڑکوں میں کھیل کے وقت ایک قسم کی شرط جس میں وہ
 باہمی اقرار کرتے ہیں کہ جب ایک دوسرے کو کوئی چیز کھائے دیکھیں تو
 آدھی ہانٹ لیں گے۔

آڈھٹا (۱-۱) (مث) آدھ یا دو پیسے کا سکہ جو اب متروک ہے۔
 آدھا سیسی - آدھے سہرا کا درد۔ درد شقیقہ۔
 آدھا ر - (اڈھا ر) (ع-۱) (مث) (۱) خورداک۔ طعام۔ کھانا (۲) سہارا۔
 آسرا۔ وسیلہ۔

آدھا ر - (اڈھا ر) (ع-۱) (مث) قرض۔ نقد کی ضد۔
 آدھا رہویا - قرض سے کاروبار کرنا۔
 آدھا رہیہ - (Lend Lease) وہ تجارتی سمجھوتہ جس کے تحت ایک
 نے دوسری چیزیں عظیم میں اتحادی طاقتوں کو مال اور سامان جنگ فراہم کیا اور
 معاوضے میں عارضی طور پر ان کے بعض علاقوں پر قبضہ کر لیا۔
 آدھا روکیجے دشمن کیجئے۔ [مثال] قرض دینا و دست کو دشمن بنانا ہے۔
 آدھا روینا - (عماورہ) قرض دینا۔
 آدھا رکھانہ - (عماورہ) وہ کتاب یا دستجر جس میں واجب الادا رقم کا اندراج ہو۔
 آدھا رکھانا (عماورہ) قرض لکھا ناقض لینا (۲) دشمن ہونا۔ درپے ہونا۔
 آدھا رکھانا بیجوس کا ناپنا برابر ہے۔ [مثال] ادھا رکھی چیزیں
 برکت نہیں کتنی ہے۔
 آدھا رکھاسے ہیں۔ آدھا رکھائے ہوئے ہیں۔ آدھا رکھائے بیٹھے ہیں
 ہمت من مستعد بیٹھے ہیں۔ درپے ہیں۔

اڈخال - (اڈخال) (ع-۱-۱) (مث) (۱) داخل کرنا (۲) داخل کرنا۔ دوج جو سکرنا
 (۳) شامل کرنا۔ شریک کرنا۔
 اورار - (اڈو-۱) (ع-۱) (مث) (۱) ہنار۔ جاری ہونا (۲) کھل کر پیشاب آنا۔
 ادرک - (اڈرک) (ع-۱) (مث) (۱) پانا۔ دریافت کرنا (۲) عقل۔ فہم۔ رسائی۔
 اڈرسا - (اڈرسا) (ع-۱) (مث) (۱) ایک قسم کا سفید اور باریک سونی پڑا جس کی
 بناوٹ میں جمجمہ پان ہوتا ہے۔
 اڈرک - (اڈرک) (ف-۱) (مث) ایک قسم کی خوشبودار چربو خشک ہو جانے
 پر سڑنے لگتا ہے۔
 ادرک کا پچھا - باریک کتری ہوئی ادرک۔
 اڈرکی - (اڈرکی) (اڈرکی) (ع-۱) (مث) (۱) تازے گڑ میں ادرک ملی ہوئی دوا۔
 ادریس - (اڈریس) (ع-۱) (مث) ایک مشہور پیر کا نام۔
 اڈرکڑ - اڈرکڑا - (اڈرکڑ) (اڈرکڑ) (ع-۱) (مث) (۱) گڑ۔ (۲) گڑ۔ (۳) گڑ۔ (۴) گڑ۔ (۵) گڑ۔
 (۱) پھٹے ہوئے کپڑے (۲) وہ شخص جس نے پھٹے پڑے کپڑے
 میں رکھے ہوں۔
 اڈرکڑا سووے مر جا دولا رووے۔ [مثال] غریب نے سے سوتا
 ہے۔ امیر کو نیند نہیں آتی۔

اڈعا - (اڈعا) (ع-۱) (مث) دعویٰ کرنا۔ بے دلیل بات کہنا۔ اپنی طرف ایسی
 بات منسوب کرنا جو واقعی نہ ہو۔
 ادعائے ملکیت - مانگ ہونے کا دعویٰ کرنا۔
 ادعیہ - (اڈعیہ) (ع-۱) (مث) (۱) دعویٰ جمع۔ دعائیں۔
 ادعیہ ماثورہ - وہ دعائیں جو سرکار دعو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں۔
 اڈغام - (اڈغام) (ع-۱) (مث) (۱) شامل کر دینا۔ ملا دینا (۲) ایک جنس کے دو جنوں
 کو آپس میں ملا دینا (۳) ادب میں ایک صنف کا نام۔
 اڈوق - (اڈوق) (ع-۱) (مث) (۱) نہایت باریک۔ نہایت مشکل۔ ڈوبھ کھن۔
 اڈقچہ - (اڈوق) (ع-۱) (مث) (۱) کاجوئی سفید حاشیے کی چادر جو بطور آرائش
 تو تنک کے پیچھے پھانی جاتی ہے اور اس کے حاشیے دار کنارے سے باہر
 نکلے رہتے ہیں۔

اڈوک - (اڈوک) (ق-صفت) زیادہ۔ ٹھٹ۔
 اڈوکرا - (اڈوکرا) (ع-۱) (مث) (۱) نیم پختہ پچا پچا۔ آدھا پچا۔ آدھا پچا۔
 اڈولا - (اڈولا) (اڈولا) (ع-۱) (مث) (۱) بڑے بڑے حلال جانوروں کی ٹانگ کا بے ریشہ
 گوشت (اصل عربی حصلہ)
 اڈولا بڈلا - (اڈولا بڈلا) (ع-۱) (مث) (۱) بڈلا۔ (۲) بڈلا۔ (۳) بڈلا۔ (۴) بڈلا۔ (۵) بڈلا۔
 معاوضہ آنٹ پھر کبوتر بدل ایک چیز سے کر اس کے عوض دوسری چیز لینا۔
 اڈولہ - (اڈولہ) (ع-۱) (مث) (۱) بڈلا کی جمع۔ دہلیلیں۔
 اڈم - (اڈم) (ع-۱) (مث) (۱) محنت۔ کوشش۔
 اڈم سے وکڑ لکھٹے۔ [مثال] محنت اور کوشش سے کوشش دور ہوتی ہے۔
 اڈنی - (اڈنی) (ع-۱) (مث) (۱) کمینہ چھوٹے درجہ کا۔ کم قد۔ بیچ۔ اعلیٰ کی ضد۔
 (۲) خفیہ۔ مخفی۔ (۳) بغیر کنگال مغلس۔ بے دولت۔
 اڈوارہ - (اڈوارہ) (ع-۱) (مث) (۱) گڑ میں پچڑ (۲) زٹلے عرصے۔ مد میں۔
 اڈوان - (اڈوان) (ع-۱) (مث) (۱) اڈوان۔ (۲) اڈوان۔ (۳) اڈوان۔ (۴) اڈوان۔ (۵) اڈوان۔ (۶) اڈوان۔

اُدھار کی کیا ماں مری ہے۔ قرض مناشکل نہیں ہے۔ کہیں نہ کہیں سے مل جائے گا۔
اُدھار لینا۔ (معاورہ) قرض لینا۔
اُدھار ہونا۔ (موجانا) قرض ہونا۔ قرض چڑھنا۔
اُدھار رکٹ۔ (اُدھار رکٹ) [مصنف] (۱) لڈزب (۲) پانی بجے کا کھٹنے والا
اُدھر۔ (اُدھر) [مصنف] (۱) مُتعلق۔ دہ چیز جو کسی پرگی ہوئی نہ ہو زمین سے الگ۔ (۲) اُدھ بیچ بے سہارا۔
اُدھر اُٹھا لینا۔ (معاورہ) بے لاگ اُٹھا لینا۔ زمین سے اُوچھا کر لینا۔
اُدھر کر لینا۔ مُتعلق کر لینا۔
اُدھر میں پڑے ہیں۔ (معاورہ) بیچ میں لٹکے ہیں۔ کسی طرف کے نہیں۔
یستونی نہیں ہے۔
اُدھر میں چھوڑنا۔ (معاورہ) اُدھ بیچ میں چھوڑنا۔ اُدھر کا رکھنا نہ اُدھر کا۔
بے سہارے چھوڑ دینا۔
اُدھر میں لکھنا۔ (معاورہ) ایک سوئی کی حالت نہ ہونا۔ نہ مرنا نہ جینا۔
بیچ میں لٹکا ہوا ہونا۔
اُدھر۔ (اُدھر) [اص] جانب۔ اس طرف۔ دوسے نزدیک۔ پاس۔
نزدیک۔
اُدھر اُدھر۔ جہاں نہاں۔ ایسی دسی جگہ۔ یہاں دیاں۔ اس پاس۔
اُدھر آیا اُدھر گیا۔ (معاورہ) ہتھوڑی دیر بھڑنا۔ ذرا قیام کرنا۔ آتے ہی چلے جانا۔ خرچ ہو جانا۔
اُدھر اُدھر کی باتیں۔ لغو اور بے ہودہ باتیں۔ معمولی باتیں۔
اُدھر سے اُدھر کرنا۔ (۱) کسی چیز کو غائب کر دینا پھیر لینا (۲) ایک جگہ سے اُٹھا کر دوسری جگہ رکھ دینا۔ بے ٹہلنے کر دینا۔ بے ترتیب کر دینا۔
اُدھر سے اُدھر ہونا۔ (۱) کسی چیز کا بے موقع یا بے ٹھکانے ہو جانا۔
سربک جانا (۲) پلٹ جانا۔ غائب ہو جانا۔
اُدھر قبلہ اُدھر فقر، خدیجہ سوئے کدھر۔ [مثلاً] کوئی بات کرتے نہیں۔
بٹنی۔ یوں ہی مشکل دوں ہی مشکل۔

اُدھر ہونا یا اُدھر ہونا۔ (۱) ایک طرف ہو جانا۔ کسی ایک کی طرف تدارکی کرنا۔
اُدھر جانا یا **اُدھر جانا**۔ (۲)
اُدھر۔ (اُدھر) [اص] طرف۔ اس جانب۔ پڑے۔
اُدھر سے۔ (۱) اس طرف سے۔ ان کی جانب سے (۲) غیب سے۔
خدا کی طرف سے۔
اُدھر لاج۔ اُدھ پیراج۔ (اُدھ۔ راج۔ آ۔ دھ۔ نی۔ راج) [اص۔ اُدھ]
ماہراج پکرونی راجہ۔ بادشاہ۔ شہنشاہ۔
اُدھرم۔ (اُدھرم) [اص۔ اُدھ] [اص۔ اُدھ]
اُدھرتا۔ (اُدھرتا) [اص۔ اُدھ]
اُدھرتا (۳) کھال اڈنا (۴) تباہ اور زیر بار ہونا (۵) چھت یا پوشش کھنا
الگ ہونا۔ جھٹ مانکھانا۔
اُدھکٹ۔ (اُدھکٹ) [اص۔ اُدھ] (۱) بہت زیادہ (۲) سوا۔ خالتو۔
اُدھکار۔ (اُدھکار) [اص۔ اُدھ]
اُدھکاری۔ (۱) اُدھکار۔ (۲) سٹی دار۔ مستحق۔
اُدھل جانا۔ (اُدھل۔ جانا) [اص۔ اُدھ]
جوش سستی میں آپسے سے باہر ہو جانا (۲) عورت کا غیر مرد کے ساتھ بھاگ جانا۔
اُدھم۔ (اُدھم) [اص۔ اُدھ] (۱) مشکی گھوٹا۔ سیاہ رنگ کا گھوٹا۔ (۲) بیخ کے ایک مشہور بادشاہ کا لقب جو تختہ سلطنت چھوڑ کر تفریق بنائے تھے۔ ابراہیم اُدھم۔
اُدھم۔ (اُدھم۔ اُدھم) [اص۔ اُدھ]
اُدھم اٹھانا۔ اُدھم جوتنا۔ اُدھم مچانا۔ (معاورہ) اُدھم مچانا۔ شور مچانا۔
اُدھمی۔ (اُدھمی۔ اُدھمی) [اص۔ اُدھ]
اُدھن۔ (اُدھن) [اص۔ اُدھ]
اُدھوٹا۔ (اُدھوٹا) [اص۔ اُدھ]
اُدھوٹا۔ (اُدھوٹا) [اص۔ اُدھ]
اُدھوٹا۔ (اُدھوٹا) [اص۔ اُدھ]
اُدھوٹا۔ (اُدھوٹا) [اص۔ اُدھ]
اُدھوٹا۔ (اُدھوٹا) [اص۔ اُدھ]
اُدھوٹا۔ (اُدھوٹا) [اص۔ اُدھ]
اُدھوٹا۔ (اُدھوٹا) [اص۔ اُدھ]
اُدھوٹا۔ (اُدھوٹا) [اص۔ اُدھ]
اُدھوٹا۔ (اُدھوٹا) [اص۔ اُدھ]
اُدھوٹا۔ (اُدھوٹا) [اص۔ اُدھ]
اُدھوٹا۔ (اُدھوٹا) [اص۔ اُدھ]
اُدھوٹا۔ (اُدھوٹا) [اص۔ اُدھ]
اُدھوٹا۔ (اُدھوٹا) [اص۔ اُدھ]

بنائی جاتی ہے (۲) جالی کاڑھنے اور کارچوبی بنانے کا مستعمل چوکھا
(۳) جوئی جازوں۔ بسوں اور ناگوں وغیرہ کے ٹھہرنے کی جگہ (۴) کسبیلیا
اور طوافوں کے رہنے کا مقام۔ جگلا (۵) وہ جگہ جہاں کوئی شخص اکثر
بیٹھا کرے (۶) چوک۔ آئین (۷) جوئی کا کھڑا اور کھلا حصہ۔ ایڑی۔
(۸) چڑیوں کے پتھر کے اندر لکڑی یا بوسے کی بھر جو بیٹھنے کے لیے
لگائی جاتی ہے (۹) بننے ہوئے کپڑے یا ٹکڑے کناری کا تھان (۱۰)
نواڑنے کا لکڑی کا بنا ہوا ایک خاص قسم کا چوکھا۔

اڈو اڈو (اڈو۔ ڈو۔ اڈو۔ ڈو) (۱۰-۱۱) ادارہ پھرنے والی عورت۔

اڈو اڈو کرنا (ہونا) رسوا کرنا۔ بدنام کرنا یا ہونا۔ عجیب لگانا۔ نظروں سے
گرا کرنا یا گرنے۔

اڈھنگا۔ (اڈھ۔ ن۔ گ) (ن۔ صفت) بے ڈھنگا۔ بد وضع۔

اڈھی۔ (اڈ۔ ڈی) (۱۰-۱۱) جوئی کے کھلا حصہ ایڑی (۲) کپڑے کی وہ کٹی
جو عورتوں کے شلو کے میں کٹوری اور آستین کے بیچ ہوتی ہے۔

اڈیٹر (Editor) (۱-۱) ڈی۔ ٹی۔ (۱۰-۱۱) اخبار یا رسالے
کو مرتب کرنے والا۔ مدیر۔

اڈیٹوریل (Editorial) (۱-۱) ڈی۔ ٹی۔ (۱۰-۱۱) [انگ۔ ا۔ مذ]
مقالہ اقتضیہ۔ ادارہ۔

اڈیشن (Edition) (۱۰-۱۱) ڈی۔ ٹی۔ (۱۰-۱۱) [انگ۔ ا۔ مذ] (۱۱)
طبع۔ چھاپا (۲) جوڑ۔ بیچ

اڈیشنل (Additional) (۱-۱) ڈی۔ ٹی۔ (۱۰-۱۱) [انگ صیف]
بڑھا ہوا۔ اضافہ کیا گیا۔ زائد۔ نیا۔ نئے۔

ا-۱

اذان۔ (ا۔ ذ۔ ان) (ع۔ ۱-۱) [ع۔ ۱-۱] [انگ۔ ا۔ مذ] (۱۱) کان میں خبر یا آواز پہنچانا (۲) نماز کے واسطے
بلانے کی صدا (۳) مرنے کا بلانا۔ بانگ۔

اذان دینا۔ اذان کنا۔ (عامہ) بانگ دینا۔ نماز کے لیے بلانا۔

اذغان۔ (ا۔ ذ۔ غان) (ع۔ ۱-۱) [انگ۔ ا۔ مذ] (۱۱) فرمان برداری۔ طاعت (۲) یقین کرنا
اعتبار۔ بھروسہ۔

اڈفر۔ (ع۔ صفت) خالص (۲) تیز نور رکھنے والی چیز

اڈقان۔ (ع۔ صفت) ذوق کی جمع۔ ٹھوڑیاں۔

اڈگار۔ (ا۔ ذ۔ گار) (ع۔ ۱-۱) [انگ۔ ا۔ مذ] (۱۱) ذکر کی جمع (۱۱) بیانات (۲) قصے کہانیاں (۳)
دعوت (۴) درود۔ وظیفے۔

اڈر گیا۔ (ا۔ ذ۔ ک۔ یا) (ع۔ صفت) (۱-۱) [انگ۔ ا۔ مذ] (۱۱) ذکر کی جمع۔ ذہین اور ہوشیار لوگ

اڈرت۔ (ا۔ ذ۔ رت) (ع۔ صفت) سب سے زیادہ ذہیل۔ ذہیل ترین۔

اڈرن۔ (ع۔ ۱-۱) [انگ۔ ا۔ مذ] (۱۱) حکم۔ اجازت۔ پرواگی۔ آگیا۔

اڈرن عام۔ (۱۱) اجازت (۲) وہ اجازت جو میت کا دارت جنازہ کی نماز کے
بعد ضروری کام والوں کو جیلے جاسفہ کے لیے دیتا ہے۔

اڈران۔ (ا۔ ذ۔ ان) (ع۔ ۱-۱) [انگ۔ ا۔ مذ] (۱۱) ذہن کی جمع۔ عقل۔ سمجھ۔ ادراک۔

اڈریت۔ (ا۔ ذ۔ ی۔ یث) (ع۔ ۱-۱) [انگ۔ ا۔ مذ] (۱۱) ایسا۔ دکھ۔ تکلیف۔

اڈھی اڈھی کا حساب۔ (عامہ) ذرا ذرا سی چیز کا حساب۔
اڈھی کی چوٹیوں۔ (۱) بنایت جتنا اور کم قیمت چیز (۲) بچوں کا ایک کھلونا۔
اڈھی کی ہانڈی بھی بھونک سجا کر لیتے ہیں۔ [ایشل] معمولی سا کام ہی
سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے۔

اڈھی کے ٹون کو جاؤں لاؤ میری پانکی۔ [ایشل] اس نئی خبر کے سبب
بولتے ہیں جسے نئی نئی دولت ملی ہو اور وہ اپنا پھیرا بن دکھائے۔

اڈھی کے واسطے پیسے کا تیل جلاتا۔ [ایشل] ٹھوڑے ٹھوڑے ٹانے کے لیے
بہت نقصان اٹھانا۔

اڈھی پانک۔ (اڈھ۔ یا۔ پانک) (س۔ ۱۰-۱۱) [انگ۔ ا۔ مذ] (۱۱) استاد معلم۔

اڈھی پان۔ (اڈھ۔ یا۔ پن) (س۔ صفت) پڑھانے کا کام۔

اڈھیار۔ (اڈھ۔ یار) (۱۰-۱۱) [انگ۔ ا۔ مذ] (۱۱) کسی جاندار میں آدھا حصہ (۲) آدھے
کا مالک۔ وہ زمیندار یا کاشتکار جو گاؤں یا زمین میں آدھے مالک ہے۔

اڈھیاری۔ (اڈھ۔ یاری) (۱۰-۱۱) [انگ۔ ا۔ مذ] (۱۱) کسی جاندار میں آدھی حصہ داری۔

اڈھیانا۔ (اڈھ۔ یا۔ نا) اڈھا کرنا۔ دو برابر حصوں میں بانٹنا۔

اڈھیائے۔ (اڈھ۔ پائے) (س۔ ۱۰-۱۱) [انگ۔ ا۔ مذ] (۱۱) پانچ۔ حصہ۔ سبق۔ باب۔

اڈھیڑ۔ (ا۔ ڈھیڑ) (۱۰-۱۱) [انگ۔ ا۔ مذ] (۱۱) بڑھاپے اور جوانی کے درمیان متوسط عمر کا
نوجوان اور نوجوان۔

اڈھیڑ ہونا۔ متوسط عمر کا ہونا۔ ڈھلی ہوئی عمر کا ہونا۔

اڈھیڑ پن۔ (ا۔ ڈھیڑ پن) (۱۰-۱۱) [انگ۔ ا۔ مذ] (۱۱) اڈھیڑنا اور بننا۔ سچ بچار
خود فکر۔ تردد۔

اڈھیڑینا۔ (ا۔ ڈھیڑ۔ دے نا) (ار۔ مص) (۱۱) ٹانگے توڑینا یا سلائی توڑینا۔
چھڑی انا دینا۔ بہت زیادہ مارنا۔

اڈھیڑنا۔ (ا۔ ڈھیڑنا) (۱۰-۱۱) [انگ۔ ا۔ مذ] (۱۱) سیون کھولنا۔ ٹانگے الگ کرنا (۲) ہنی ہونی
چیز کی چھت کھاڑنا (۳) پر نوجنا (۴) مارنا۔ پینا۔ کھال آنا۔

چھڑا الگ کرنا (۵) لانا۔ ٹانگے کرنا (۶) ہنی ہونی چیز کھولنا۔

اڈھیلا۔ (ا۔ ڈھیلا) (۱۰-۱۱) [انگ۔ ا۔ مذ] (۱۱) آدھا پیسہ۔ دھلا۔ ایک پیسے کا ۱/۲ حصہ۔
اڈھیٹی۔ (ا۔ ڈھیٹی) (۱۰-۱۱) [انگ۔ ا۔ مذ] (۱۱) آدھا روپیہ۔ ڈھیلی۔ اٹھنی۔

اڈھیٹن۔ (ا۔ ڈھیٹن) (س۔ صفت) تا بعد۔ فرماں بردار۔ مطیع۔

اڈھیٹنا۔ (ا۔ ڈھیٹنا) (س۔ ۱-۱) [انگ۔ ا۔ مذ] (۱۱) لاجاری۔ بے بسی غریبی
اڈیان۔ (ا۔ ڈیان) (ع۔ ۱-۱) [انگ۔ ا۔ مذ] (۱۱) دین کی جمع۔ مذہب۔

اڈیب۔ (ا۔ ڈیب) (ع۔ ۱-۱) [انگ۔ ا۔ مذ] (۱۱) ادب کھانے والا۔ انالیتی (۲)
علم ادب جاننے والا۔ زبان دان۔

اڈیبانہ۔ (ا۔ ڈی۔ یا۔ نہ) (ع۔ صفت) ادیب سے منسوب۔

اڈیبہ۔ (ا۔ ڈی۔ بہ) (ع۔ ۱-۱) [انگ۔ ا۔ مذ] (۱۱) علم ادب جاننے والی۔ زبان دان عورت۔

اڈیجھا۔ (ا۔ ڈے کھا) (ن۔ صفت) کم بین۔ حاسد۔

اڈیوم۔ (ا۔ ڈیوم) (ع۔ ۱-۱) [انگ۔ ا۔ مذ] (۱۱) اڈھوڑی چھڑا (۲) سطح زمین۔

ا-۱

اڈا۔ (ا۔ ڈا) (۱۰-۱۱) [انگ۔ ا۔ مذ] (۱۱) وہ بیٹھک جو بالترتیب بڑوں کے بیٹھنے کو

آز۔ [ا۔ ا۔ مذ] (۱) ایک قسم کی بہت لمبی مکڑی جس سے صندوق اوزن لوہار کی میان وغیرہ بناتے ہیں (۲) [ت] اگر

آز۔ [ت] صرت شرط۔ اگر

آز۔ [ت] نیم عراق کا ایک شہر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مسکن تھا۔

آز۔ آرا کے بیٹھ جانا۔ گر پڑنا۔ (مخادو) دفعہ گر پڑنا عمارت کا بیٹھ جانا۔

آز۔ آ۔ (ا۔ نا۔ بیہ) [ت] ۱۔ امش [۱] بیل گاڑی پھکڑا۔ سامان لانے کی گاڑی (۲) وہ گاڑی جس پر توپ کا سامان گولہ بارود رکھتے ہیں۔

آرادت۔ [ا۔ نا۔ ذت] (ع۔ ا۔ امش) [۱] خواہش۔ عقیدت۔ اعتقاد۔ آرزو۔ یقین جمع: ارادات

ارادات مشد۔ معتقد۔ اعتقاد رکھنے والا۔ مرید۔

ارادت مندی۔ اعتقاد۔ یقین

ارادۃ۔ [ا۔ ا۔ ذہ] (ع۔ ا۔ مذ) [۱] قصد عزم (۲) منصوبہ۔ نشا (۳) مرضی۔ خواہش۔ اچھا

ارادہ باندھنا۔ ارادہ کرنا۔ قصد کرنا۔ ٹھانا۔ منصوبہ باندھنا۔

ارادہ بندھنا۔ قصد ہونا۔

ارادہ رکھنا۔ قصد رکھنا۔ نیت رکھنا۔

ارادتی۔ [ا۔ را۔ دی] (ع۔ ا۔ صفت) [۱] اختیار۔ ارادہ سے متعلق۔

آراؤل۔ [ا۔ را۔ ذل] (ع۔ صفت) [۱] ادول کی جمع۔ نالائق لوگ۔ سیکھنے کو نہ آتے اور سبب لوگ۔

آراوٹ۔ [ا۔ را۔ روٹ] (ا۔ ا۔ مذ) [۱] ایک قسم کی غذا جو ایک دخت کی جڑ سے حاصل ہوتی اور بچوں اور مریمین کو بانی یا دودھ میں پکا کر دی جاتی ہے۔

اراضی۔ [ا۔ را۔ ضی] (ع۔ ا۔ امش) [۱] ارض کی جمع (۱) زمین۔ دھرتی (۲) زمین کا شت۔ کھیت (آردو میں بطور واحد استعمال ہے) جمع: اراضیات

اراضی آفادہ۔ بے کاشت اور بجز زمین۔ بجز۔

اراضی بند لستی۔ وہ زمین جس کا بندوبست کیا گیا ہو۔

اراضی جل کر۔ وہ اراضی جس میں برساتی پانی آبپاشی کے لیے جمع کیا جائے۔

اراضی خالصہ۔ خالص سرکاری زمین۔

اراضی دیبا برآمد۔ وہ زمین جو دریا کے بہت جلنے سے ظاہر ہو جائے۔

اراضی دربار۔ وہ زمین جو دریا کی طینی سے ڈوب گئی ہو۔

اراضی سستی۔ وہ اراضی جس پر پھٹے کے لیے مکانات بناتے ہیں۔

اراضی (مشاطات) مشاطاتی۔ گاؤں کی مشرک زمینیں جو تقسیم نہ ہوئی ہو۔

اراضی شور۔ ناقابل کاشت۔ کلر زمین۔ وہ زمین جس میں کھار کے باعث کاشت نہ ہو سکے۔

اراضی معانی۔ وہ زمین جس کی مالگداری معاف ہو۔

اراضی نو ترو۔ نئی کاشت کی ہوئی زمین۔

اراضی وقت۔ وہ اراضی جو کسی کی ملکیت نہ ہو اور کا رخیر کے لئے چھوڑی گئی ہو۔

اراضیات۔ [ا۔ را۔ ضی۔ یا ت] (ع۔ ا۔ امش) [۱] اراضی کی جمع۔ زمینیں۔

آراکین۔ [ا۔ را۔ کین] (ع۔ ا۔ مذ) [۱] زمین کی جمع الجمع (۱) کھجے۔ اڑاویں۔

آرا۔ [۱۔ مص] [۱] گندے کا ہوا کے رُخ کھڑتا (۲) دن چڑھنے تک سونا (۳) کسی چیز کا کثرت سے ہونا۔

آرب۔ [ا۔ ا۔ ب] (ع۔ صفت) سو کروڑ

آرب کھرب۔ بے شمار۔ لاناہنا دولت۔ ارب سے لے کر کھرب تک۔

آربا ب۔ [ا۔ ا۔ ب] (ع۔ ا۔ مذ) [۱] جمع (۱) صاحب۔ خلداندہ۔ مالک۔ والی۔ (۲) پالنے والے

ارباب اقتدار۔ صاحب اختیار صاحبان حکومت۔ اقتدار میں آئے ہوئے لوگ۔

ارباب بست و کشاد۔ حکومت پر بعض لوگ محض مند لوگ۔

ارباب بصیرت۔ ذی فہم ذی شعور۔ زیرک۔

ارباب محنت۔ (کمائی) منطقی لوگ۔

ارباب بدانش۔ صاحب علم لوگ۔

ارباب دولت۔ دولت والے۔ مالدار لوگ۔

ارباب سخن۔ شعراء۔ ادباء۔

ارباب سیر۔ سوانح نگار۔ مؤرخ۔

ارباب شریع۔ قانون شریعت نافذ کرنے والے لوگ۔ حکام تضاد

ارباب عدالت۔ عدالت کے عہدار۔

ارباب عشرت۔ محفل عشرت کے لوگ۔ تاج رنگ دیکھنے والے۔

ارباب قلم۔ (۱) لکھنے پڑھنے والے لوگ (۲) انشا پرداز مصنف۔ مترلف۔

ارباب معنی۔ حقیقت شناس۔ عارف۔

ارباب نشاط۔ ناچنے گانے والے۔

ارباب نظر (بینش) محفل و شعور رکھنے والے۔

ارباب دفا۔ بادشاہ لوگ۔

ارباب ہنرمند۔ ہنر مند لوگ۔ فنکار۔

آرکینسی۔ [ا۔ ا۔ ب۔ سی] (ع۔ ا۔ امش) [۱] راجہ اندر کے اکھٹے کی ایک پری (۲) بھرت بریت۔ سار (۳) ہچک وک۔ روشنی (۴) ایک زیور۔

آرب۔ [ا۔ ا۔ ب۔ یغ۔ آ۔ یغ۔] (ع۔ صفت) چار۔

آرب عناصر۔ چار عنصر یعنی مٹی۔ ہوا۔ آگ۔ پانی۔

اربع جیوں کا تہوں کنبہ بیٹھا کیوں۔ [مثل] اپنی بے تونی سے اپنا کھڑتا

کردینا اور پھر قائل نہ ہونا۔

آرب مغنا۔ حساب کا ایک ناعدہ جس میں تین معلوم عددوں کے ذریعے چوتھا نامعلوم عدد دریافت کیا جاتا ہے

آرب عین۔ [ا۔ ا۔ ب۔ عین] (ع۔ ا۔ مذ) [۱] چالیس (۲) چالیس دن۔ چلہ۔

(۳) مختلف قسم کی چار حد میں۔

آرب۔ [ع۔ امش] گھوڑے کے کان کی جوڑیں ایک جھوڑی۔ ایک ہوتو

مغوس بھی جاتی ہے دو ہوں جو مبارک۔

آربین کرنا۔ [ع۔ مخادو] قربان کرنا۔ نذر کرنا۔ تحضہ پیش کرنا۔

آربنا ط۔ [ا۔ ا۔ ب۔ باط] (ع۔ ا۔ مذ) [۱] ربط ضبط میل ملاپ۔ دوستی۔ ماہ درسم۔

تعلق - اشتقاق - محبت -

ارتحان - (ارت - ت - جان) (۱) جلدی کرنا (۲) بستر سوچے جلدی کرنا۔
ارتجالا - بے ساختہ - فی البدیہہ بے سوچے سمجھے ہونا۔
ارتحان - (ارت - ت - حال) (ع - ا - نڈ) رطبت کرنا - مر جانا۔
ارتداد - (ارت - ت - داد) (ع - ا - نڈ) پھر جانا - مژد ہونا - اسلام چھوڑ دینا۔
ارتسام - (ارت - ت - سام) (ع - ا - نڈ) نقش رنگارنگ کرنا - نقاشی کرنا۔
ارتعاش - (ارت - ت - عا ش) (ع - ا - نڈ) کانپنا - بعثتہ - کپکپی۔
ارتفاع - (ارت - ت - فاع) (ع - ا - نڈ) اُچھان - بلندی - اُچھار۔
ارتفاع پیمانہ - بلندی ناپنے والا۔

ارتقا - (ارت - ت - تا) (ع - صفت) (۱) اُپر چڑھنا (۲) تدریج ترقی کرنا تدریج نشوونما ہونا - بالیدگی - عروج۔
ارتقا کا نظریہ - وہ نظریہ جس کے مطابق مادے میں نشوونما اور تبدیلی ہوتی رہتی ہے اور مادی اشیا ترقی کرتی رہتی ہیں - یہ نظریہ ڈارون کے نام سے منسوب ہے۔

ارتقائی - (ارت - ت - تا - ای) (ع - صفت) ترقی پذیر - نشوونما - ارتقا سے تعلق۔
ارتکاب - (ارت - ت - کاب) (ع - ا - نڈ) (۱) اختیار کرنا - عمل کرنا - (۲) گناہ کرنا - جرم کرنا۔
ارتکاب مجرم - جرم کرنا۔

ارتکاز - (ارت - ت - کاز) (ع - ا - نڈ) اجتماع - ایک جگہ اکٹھا ہونا - ایک مرکز پر جمع ہونا۔

ارتقا - (ارت - ت - ا - نڈ) (۱) معنی - بیان - ترجمہ (۲) نیت - مراد - مطلب - ارادہ۔
ارتھ میٹک - (Arithmetic) (ارت - ت - مے - ٹیک) (انگ - ا - نڈ) علم حساب - علم حساب کی کتاب۔

ارتھی - (ارت - تھی) (ارت - ت - ہ) ہندوؤں کا جاذوہ۔
ارتھی نکلے - (بدھما) مرجائے جہازہ نکلے۔

ارتھ - (ارت - ت - ہ) میراث - ترکہ - وہ مال جو کسی کے مرنے کے بعد اُس کے وارث کو ملے۔

ارتج - (ارت - ت - ج) (۱) قدر و قیمت (۲) جوہر - لیاقت (۳) شان و شوکت - ارجاع - (ارت - جاع) (ع - ا - نڈ) (۱) دائر گنا (۲) رجوع کرنا - رجعت۔
ارجاع نالیش - نالیش دائر کرنا۔

ارتجل - (ارت - ج - نڈ) (ع - ا - نڈ) بڑے پاؤں کا آدمی (۲) وہ گھوڑا جس کی ایک پاؤں سفید ہووے
بین اور رنگ کے ہوں - ایسا گھوڑا انھوں میں خیال کیا جاتا ہے۔

ارتجند - قدر و قیمت والا - ذی شان - ذی رتبہ۔
ارجیٹ - (Urgent) (ارت - جیٹ) (انگ - صفت) نہایت ضروری۔

تاکیدی - فوری - تعمیل طلب۔

ارتحام - (ارت - حام) (ع - ا - نڈ) زخم کی جمع پتہ دان - کوکھ۔

ارتجم - (ارت - جم) (ع - صفت) زیادہ دیر گزرنے والا - بہت دیرانی کرنے والا۔

ارتجم الرحیمین - مہربانوں کا مہربان - مراد اللہ تعالیٰ۔

ارتدو - (ارت - دو) (ع - ا - نڈ) اُردو - ماش - ایک فطرہ۔

اُردو پر سفیدی - بہت نپیل مقدار میں۔

اُردو پر پڑھ کر مارنا - (معاورہ) جا دو کر کا ماش کے دانوں پر کچھ پڑھ کر کسی طرف پھینکنا تاکہ جا دو کا اس پر اثر ہو جائے۔

اُردو کے آئے کی طرح اینٹھا - (مشل) بہت اُڑنا - خواہ مخواہ اُڑنا۔

اُردو کینٹی - (اُردو - دا - بیگ - نی) (ارت - ت - امٹ) (۱) دو بادری اور پتھار بند عورت جو شاہی حرم سرا کے دروازے پر مہر دیتی تھی - سپاہی عورت۔

اُردو اس - (اُردو - اس) (۵ - امٹ) (۱) اُس - امید - توقع - اُس (۳) عرض مرد

البتہ التماس۔

اُردو ادا - (اُردو - دا - دا) (۵ - امٹ) (۱) چاروا اور گھیبوں کا مٹوا پسا ہوا اُٹا جو پانی میں گوندھ کو گھوڑے کو دیا جاتا ہے۔

اُردو ب - (اُردو - ب) (ف - ا - نڈ) (۱) دریاں میں آنے والا (۲) شطرنج کی ارج میں شاہ کو شکست سے بچانے کے لیے بیچ میں آنے والا مہر۔

اُردو گزرو - (اُردو - گزرو) (ا - چاروں طرف - چوگرد - گرداگرد - آس پاس۔

اُردو گرو پھینا - چاروں طرف گھومنا۔

اُردو لی - (انگریزی لفظ Orderly) کی اُردو شکل [۵ - ا - نڈ] (۱) پیادہ -

ساتھ رہنے والا سپاہی (۲) اطلاع لانے اور لے جانے والا ہر کارہ۔

اُردو لی اُتارنا - بہت سے آدمیوں کا کسی عورت کے ساتھ باری باری جماع کرنا۔

اُردو لی بازار - بادشاہ اور حکام کے دوسے میں ساتھ رہنے والا بازار۔

اُردو لی سا رجنٹ - حوالدار و حیدر - داروغہ۔

اُردو لی میں چلنا - حاکم کی سواری کے ساتھ چلنا۔

اُردو لی میں رہنا - حاکم کی سواری کے ساتھ رہنا۔

اُردو - (اُردو - دو) (ت - ا - نڈ) (۱) لشکر - لشکر گاہ (۲) (مٹ) پاک دہندگی

وہ زبان جو مختلف زبانوں سے مل کر بنی ہے۔

اُردو بازار - لشکر کا بازار - چھاؤنی کا بازار - صدر بازار۔

اُردو کے مُتعلیٰ - دلی کی اعلیٰ زبان جو قطعہ شاہی میں بولی جاتی تھی - فصیح اور مستند اُردو۔

اُردو بہشت - (اُردو - بی - ہشت) (ف - ا - نڈ) ایرانیوں کا دوسرا

میدان جو ہندی صیغہ کے مطابق ہوتا ہے۔

اُردو - (اُردو - دل) (ع - صفت) بہت ذلیل - نہایت کمین۔

اُردو - (اُردو - د) (۵ - امٹ) (ع - صفت) تعجب کے موقع پر بولا جاتا ہے - بگڑا - استعجاب

(اُردو یہ کیا ہوا؟)

اُردو انا - (اُردو انا) (معاورہ) چیخنا - چلانا - گرجنا۔

اُردو - (ف - امٹ) (۱) مول قیمت (خ) (۲) عرت - قدر و قیمت - بزرگہ

ارتراق - (اُردو - راق) (ع - ا - نڈ) رزق کی جمع - روزیاں۔

اُردو انا - (اُردو - انا) (ف - صفت) سستا - کم قیمت - گراں کی ضد۔

اُردو انا جلکت گراں حکمت - (مشل) کم قیمت میں کوئی نہ کوئی عیب اُدا

پیش قیمت میں کوئی نہ کوئی وصف ضرور ہوتا ہے۔

اُردو انا - (اُردو - انا) (ف - امٹ) (۱) سستا پن (۲) کثرت - بہتات۔

زیادتی (۳) کم تصدی - بے توقیری۔

اُردو انا - (اُردو - انا) غلط ہے - دیکھئے اُردو -

اُردو انا - (اُردو - انا) (ف - امٹ) (۱) ایک غلہ کا نام چینا۔

آرتزنگ - (آرتزنگ) [ف-ا-نڈ] (۱) چین کے مشہور مصور کا نکارخانہ
 (۲) چین کے ایک مشہور مصور کا نام۔
 آرسنال - (آرسنال) [ر-ا-نڈ] بیچنا معدا نگرنا۔ دعاگی۔
 آرسطو - ارسطاطالیس - (آرسٹس - طو - ا - رس عطا علیس) (یو-ا-نڈ)
 (۱) کلاں مفاصل شخص (۲) یونان کا مشہور عالم جو فلسفہ کا معیار اول نکلاتا
 ہے اور سکندر کا استاد و مشیر تھا۔
 آرسلان - (آرسٹس - لان) [ت-ا-نڈ] شیر۔
 ارشاد - (ارشاد) [ر-ا-نڈ] (۱) ہدایت (۲) حکم آگیا۔ جمع : ارشادات۔
 ارشاد بجالانا - حکم کی تعمیل کرنا۔
 ارشاد (فرمان) کرنا - حکم دینا۔ کہنا۔
 آرشد - (آرشد) [ر-صفت] نہایت ہدایت یافتہ۔
 آرض - (ع-ا-مٹ) زمین۔ دھتی۔ جمع : اراضی
 ارض مقدس - (۱) پاک زمین (۲) فلسطین
 ارض و سما - زمین و آسمان۔
 ارضی - (آرضی) [ر-صفت] زمینی۔ زمین کا۔ زمین سے متعلق۔
 ارضیات - (آرضیات) [ر-ع-ا-نڈ] زمین کے طبقوں کا علم طبقات الارض
 (Geology)
 آرضن - (آرضن) [ر-ع-ن] (یو-ا-نڈ) ارگن باجا۔
 ایک جسم کا باجو اور اطولوں نے ایجاد کیا تھا۔
 آرضوان - (آرضوان) [ف-ا-نڈ] سرخ اور نارنجی رنگ۔ ایک سرخ
 رنگ کے پھول کا نام۔
 آرضوانی - (آرضوانی) [ف-ا-نڈ] لال رنگ کا۔
 نہایت سرخ۔ نارنجی رنگ کا۔
 آرضق - (آرضق) [ر-صفت] (۱) نہایت بلند (۲) عالی مرتبہ۔
 ارقام - (ارقام) [ف-ا-نڈ] گھنٹا بھر کر کرنا (عربی رقم سے فارسی والوں نے
 افعال کے وزن پر بنا لیا ہے)
 آرزکان - (آرزکان) [ر-ع-ا-نڈ] آرزکن کی جمع (۱) قہم ستون (۲) مجازاً وزیر
 امیر جن پر امور سلطنت کا دار و مدار ہو (۳) ممبر کسی جماعت کے (۴) وہ
 امور جن پر خاص خاص دینی یا دنیوی مسائل کا مدار ہو۔
 ارکان ادا کرنا - عبادت کو قواعد و اصول کے مطابق صحیح طور پر پورا کرنا۔
 ارکان ادا ہونا - کسی کام کے لوازمات پورے ہو جانا۔
 ارکان (دولت) سلطنت - وزیر۔ امرا۔ سلطنت کے حکام۔
 آرجبا - (آرجبا) [ج-ا-نڈ] ایک مشہور کرب عطو جو صندل۔ گلاب۔ رنگ کا فور۔
 حیرت انگیز چینی سے تیار ہوتا ہے۔
 آرگل - (آرگل) [ر-ا-مٹ] گلی کی چٹنی جو کوارٹوں کو بند کرنے کے لیے
 لگاؤ جاتی ہے۔
 آرگن - (Organ) (آرگن) [ا-نڈ] ایک باجہ
 آرن - (Earl) (اگ - ا - نڈ) نواب۔ انگلستان میں تیسرے درجے
 کے امیر کا خطاب۔
 ارم - (ارم) [ر-ا-نڈ] (۱) شہاد کی بنائی ہوئی بہشت کا نام (۲) مجازاً

بہشت۔ جنت۔
 آزمان - (آزمان) [ف-ا-نڈ] (۱) تہا۔ آرزو حسرت۔ چاہ۔ خواہش (۲)
 شوق۔ اشتیاق (۳) انوس۔ تاسف۔ دریغ۔
 ارمان بھرا۔ ارمان بھری - حسرت مند۔ آرزوؤں اور حسرتوں سے بھر۔
 ارمان بھری گھونگا۔ (عماورہ) دل میں بہت سے ارمان رکھنے والی عورت۔
 ارمان پورا ہونا۔ (عماورہ) آرزو پوری ہونا۔
 آرمان جانا رہا۔ (عماورہ) کسی بات کی آرزو مٹ جانا۔
 آسان جی کے جی میں رہنا۔ (عماورہ) حسرت رہ جانا۔ آرزو پوری ہونا۔ ارمان نہ نکلتا
 آزمان خاک میں ملنا۔ (عماورہ) مایوسی ہونا۔ ناامیدی ہونا۔
 ارمان (رہ جانا) رہنا (عماورہ) حسرت رہ جانا۔ جی کی جی میں رہنا۔
 ارمان کا خون ہونا۔ (عماورہ) آرزو پوری نہ ہونا۔
 ارمان کرنا۔ (عماورہ) تمنا کرنا۔ آرزو کرنا۔
 ارمان نکالنا۔ (عماورہ) شوق پورا کرنا۔ حسرت نکالنا۔
 آرمغان - (آرمغان) [ف-ان] (۱) تحفہ۔ ہدیہ۔ سوغات۔ نذر۔ پیشکش
 (بضم و بفتح ثانی لغت دونوں صحیح ہیں)
 آرمنا - (آرمنا) [ہ-صفت] جنگلی۔
 آرمنا ایللا - (۱) گائے نہیں کا گو بوج جنگلی میں سوکھ جاتا ہے۔ جنگلی گندھا۔
 آرمنا بھینسا - (۱) جنگلی بھینسا (۲) مجازاً بہت ٹوٹا اور طاقتور آدمی۔
 آرمند - (آرمند) [ہ-ا-نڈ] ایک درخت جس کے بیجوں سے تیل نکالا جاتا ہے۔
 آرمند خرگوشہ - ایک قسم کا بھیل۔ پینٹا۔
 آرمند کی جڑ - (۱) آرمند کے پڑ کی جڑ (۲) نہایت ناپا نما درجہ۔
 آرمندی - (آرمندی) [ر-ا-مٹ] (۱) آرمند کا بیج۔ رینڈی جس کا تیل نکالا
 جاتا ہے۔
 آرمندی کا تیل - آرمند کے بیج سے نکالا ہوا تیل جو عموماً حلاب کے لیے پیا
 جاتا ہے۔ کسٹراک۔
 آرنی - (آرنی) [ر-ا-نڈ] (۱) کھانسی (۲) کھانسی سے بڑھ کر کھانسی کی جڑ (۳) کھانسی کی جڑ
 کی جڑ (۴) کھانسی کی جڑ (۵) کھانسی کی جڑ (۶) کھانسی کی جڑ (۷) کھانسی کی جڑ
 کھانسی کی جڑ کے کا۔
 آرنی کھنا۔ طالب دیدار ہونا۔ دیدار کی التجا کرنا۔
 آرنی گو۔ آرنی کھنے والا۔ طالب دیدار حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مراد ہے۔
 آرواح - (آرواح) [ر-ا-مٹ] روح کی جمع (۱) ارواحیں۔ جانیں (۲) بہت
 اندرونی خواہش (۳) اندرونی بھروسہ (۴) ستمل ہے (۵) فرشتے (۶)
 ارواح آدھرتی سپہے۔ عورتیں، مردے کا ذکر کرنے وقت یہ عمارہ ہوتی ہیں۔
 تا کہ اس کی روح انھیں ستانے نہ آئے۔
 آرواح بھگنا۔ (عماورہ) روح کا پریشان ہونا۔ کسی چیز کی تلاش میں جان بیکل
 رہنا۔ کسی چیز کی حسرت لے کر مر جانا۔
 ارواح (بھرنے) بھر جانا۔ (عماورہ) بہت بھرنے۔ طبیعت سیر ہونا جی بھرنے۔
 ارواح بڑی رہنا۔ (عماورہ) بہت بڑی رہنا۔ دھیان بڑا رہنا۔
 ارواح (بھرنے) بھرنا۔ (عماورہ) جی بڑا رہنا۔ طبیعت نہ رہنا۔ بہت بھر جانا۔
 ارواح خبیثہ - بدروحیں۔ بھرت ہریت۔

۱-۱-۱

اُراج گئی رہنا۔ (معاورہ) نیت لگی رہنا۔
 اُراج نہ نہ گئے۔ (معاورہ) عورتیں کسی مرد سے کی بُرائی کرتی ہیں تو یہ کلمہ بُرائی پر لگتی ہیں۔
 اُروپت۔ (اُ-رو-پت) (س-ا-مذ) [بھدراپن-بد معانی (۲) (صفت) بد شکل بھدا۔]
 اُروپا۔ (اُ-رو-پا) [انگریزی یورپ (Europe) کا مغرب و ممالک یورپ و خلیج فارس۔]
 اُروپائی۔ (اُ-رو-پائی) (ف-صفت) یورپی-یورپ والا۔ یورپ سے متعلق۔
 اُروڑا۔ (اُ-روڑ-ا) (ہ-ا-مض) [پنجابی ہندوؤں کی ایک ذات۔]
 اُروگی۔ (اُ-رو-گی) (ہ-صفت) جسے کوئی بیماری نہ ہو۔ بھلا چنگا۔
 اُروں۔ (اُ-روں) (ا-ا-مض) [دہ بھونری جو گھوڑے کے کان کی جڑ میں گدن کی طرف ہوتی ہے اور دونوں طرف مبارک اور ایک طرف بُری خیال کی جاتی ہے۔]
 اُرونی۔ (اُ-رو-نی) (ا-ا-مض) [ایک قسم کا سفید اور مٹا کاغذ۔]
 اُردن گھڑوں۔ (اُ-ردن) (ا-ا-مض) [بچوں کا ایک کھیل، چھوٹے نیچے پاؤں پھیلا کر ہاتھ پیرے جلتے ہیں اور یہ اناٹا لگتے جاتے ہیں۔]
 اُرونی۔ (اُ-رو-نی) (ز-ا-مض) [ایک لیس دار ترکاری جو برہ کی قسم سے ہوتی ہے گھیاں۔]
 اُردہ۔ (اُ-ردہ) (ف-ا-مض) [گڑی چیرنے کا اوزار۔ اُردہ۔]
 اُردہ کش۔ (ف-ا-مض) [گڑی چیرنے والا۔]
 اُردہ سہر۔ (اُ-ردہ-سہر) [ایک غلہ جس کی مال پکا کر کھاتے ہیں۔]
 اُردہ کی ٹیلا گرائی نالا۔ [ٹیل] نامزدوں کا م۔ خوب مناسبت چیزوں کا میل۔
 اُردنی۔ (اُ-رد-نی) (ا-ا-مض) [بیل یا ٹیکے کی پٹھری جس کے سرے پر لوہے کی نیچکی لگ ہوتی ہے۔]
 اُردنی۔ (اُ-رد-نی) (ہ-ا-مض) [کلمہ خطاب۔ کم تر عورت کے لیے۔]
 اُردنے۔ (اُ-رد-نے) (ا-ا-مض) [کلمہ ندا و خطاب۔ اے۔ او (کم تر شخص کے لیے) (۲) کلمہ تعجب۔]
 اُردے کرے کرنا۔ (معاورہ) بے ادبی سے بولنا۔ اے سے کرنا۔ گستاخی سے پیش آنا۔
 اُردے سے رے۔ (کلمہ تعجب) نہایت جیرانی اور تعجب ظاہر کرنے کے موقع پر بولتے ہیں۔
 اُردے لوگو۔ اے اُمیر۔ اے مردو!
 اُردیب۔ (اُ-ردیب) (ف-صفت) اُڑا۔ ترچھا۔
 اُردیب دار پا جا مہ۔ اُڑا پا جا مہ جس کی عمر اتنی تنگ ہوتی ہے کہ پنڈلی سے چپک جاتی ہے۔
 اُردیب کی باتیں۔ پیچیدہ باتیں۔ پیٹیواں باتیں۔ فریب کی باتیں۔ دھوکے کا کھنڈو۔
 اُردیب کی چال۔ دغا و فریب کی بات۔ ٹیوھی چال۔
 اُردیوان۔ (اُ-ردیب-وان) [اُرد-صفت] اُڑا۔ ترچھا۔
 اُردیب۔ (ع-صفت) عضلندہ۔ دانہ۔

اُرد۔ (اُ-رد) [ہ-ا-مض] (۱) چند ہنٹ۔ بیج (۲) سُدا۔ ثقالت۔
 اُرد بیٹھنا۔ (معاورہ) چند کرنا۔ صبر کرنا۔ ہنٹ کرنا۔
 اُڑ جانا۔ (معاورہ) ہنٹ کرنا۔ صبر کرنا۔ صبر کرنا۔
 اُڑ کر لینا۔ (معاورہ) دھرنے کے لینا۔ بے وسرل کیے نہ چھوڑنا۔ پکڑ کر لینا۔
 اُڑ کھڑا ہونا۔ (معاورہ) سدا رہنا۔ راستہ رک کر کھڑا ہونا۔
 اُڑ کے بیٹھنا۔ (معاورہ) جم کر بیٹھنا۔ اس قصد سے بیٹھنا کہ جب تک کام پورا نہ ہو اُنھیں گئے نہیں۔ دھڑلنا۔
 اُڑا اُڑا۔ (اُڑا-اُڑا) (ا-ا-مض) [۱] مکان یا دیوار کرنے کی آواز (۲) دریا کا کڑاڑا۔
 اُڑا اُڑا دھم۔ اُڑا اُڑا دھرم۔ اُڑا اُڑا دھول۔ کسی چیز کے بے تحاشا کرنے کی آواز۔
 اُڑا اُڑا کر کے کرنا۔ دھماکے سے کرنا۔ مکان کا بلند آواز سے کرنا۔
 اُڑا۔ (اُڑا-ا) (ا-ا-مض) [۱] اُڑا گیا (۲) نایاب۔ کم باب۔
 اُڑا آنا۔ (معاورہ) بہت جلد آنا تیز روی سے آنا۔
 اُڑا اُڑ جانا۔ (معاورہ) ناپید ہو جانا۔ نایاب ہو جانا۔
 اُڑا پھرنا۔ (معاورہ) مجددہ کشت لگانا۔ ہوا میں اُردھ اور گشت کرنا۔
 اُڑا جانا (معاورہ) (۱) تیز تیز جانا (۲) اُڑتے ہوئے جانا (۳) مال جانا (۴) کھائی جانا
 اُڑا دینا۔ (معاورہ) (۱) مشورہ کر دینا (۲) موتوف کر دینا۔ بند کر دینا (۳) چوری کر لینا
 قاسب کر دینا (۴) خراج کر دینا (۵) اُدھڑنا۔
 اُڑا لانا۔ (معاورہ) (۱) ہوا کی مدد سے کسی چیز کو بالا بلالانا۔ چالاک سے کوئی چیز حاصل کرنا۔
 اُڑا لینا۔ (معاورہ) (۱) چھل لینا (۲) اس طرح لے جانا کہ معلوم نہ ہو (۳) بغیر نسلے کوئی چیز دیکھ کر سمجھ لینا۔ ہیرہ ہونقل کر لینا۔
 اُڑان۔ (اُ-ڑان) (ہ-ا-مض) [۱] غلہ۔ ستون۔ وہ لکڑی جس سے کسی گرتی ہوئی دیوار یا چھت کو سہارا دینے میں۔
 اُڑان۔ (اُ-ڑان) (ہ-ا-مض) [۱] برداز۔ اُڑنا (۲) چھلانگ جستن
 اُڑان کھائی۔ (معاورہ) (۱) بندھی ہوئی چوٹیں (۲) انگلیوں کی جڑ کا حصہ (۳) شہد باز چالاک۔ ہوشیاری۔ فریب دی۔
 اُڑان کھائی تیا ناطل معاورہ) انٹی مارنا۔ دغا دینا۔ دھوکہ دینا۔ فریب دینا۔ بہکانا۔
 اُڑا نا۔ (اُ-ڑا-نا) (ہ-مض) [۱] اُڑا نا پھنسانا۔ اُڑا نا (۲) روکنا۔ ٹھہرانا۔ مائل کرنا۔ (۳) شامل کرنا۔ ملانا۔ شریک کرنا (۴) [مذ] بڑا اور موٹا اُڑان۔ غم۔ ستون۔ وہ مضبوط لکڑی جو دیوار یا چھت کے سنبھالنے کے لیے لگائی جاتی ہے۔
 اُڑا نا۔ (اُ-ڑا-نا) (ہ-مض) [۱] دکھ یا بیماری کے باعث گلے کی طرح چیلانا۔ کراہنا۔ (۲) سخت آواز سے بولنا۔
 اُڑا نا۔ (اُ-ڑا-نا) (ہ-مض) [۱] پرواز میں لانا پر پرواز کرنا۔ پرندوں یا ننگ و فیرہ کو فضا میں پہنچانا (۲) کاٹنا۔ تراشنا۔ کڑنا۔ جدا کرنا (۳) بغیر تیلے کوئی کام دیکھ کر سمجھ لینا۔ ہیرہ ہونقل کرنا (۴) چچرا کر لینا۔ محضت حاصل کرنا۔ چھپانا (۵) اکھاڑنا۔ غراب کرنا۔ سمجھنے نہ دینا۔ نکالنا۔ موتوف کرنا (۶) اُڑانا اُن سے کرنا۔ بھلا دینا (۷) دودھ کرنا۔ پر سے کرنا۔ ہٹانا۔ صانع کرنا (۸)

فعل خرچی کرنا۔ روپربراو کرنا (۹) بے جا تعریف کرنا۔ سنانا۔ سبب سے نہیں ڈالنا۔
 رسوا و بدنام کرنا (۱۰) بھگتے جانا۔ چھپا دینا۔ غائب کر دینا (۱۱) جامعت
 کرنا۔ کام بنانا۔ کھیل بنانا (۱۲) رونق بھگانا۔ زینت تختستان۔ جان ڈالنا۔ خوش
 ذائقہ بنانا (۱۳) ہنگامنا۔ جھلنا۔ تکان (۱۴) ٹپکانا۔ بھگانا۔ دوڑانا (۱۵) لگانا
 کھڑا کرنا۔ (۱۶) برسانا۔ پھٹکانا۔ صاف کرنا (۱۷) مشہور کرنا۔ شہرت دینا (۱۸)
 پینا۔ نوش کرنا۔ سے نوشی کرنا۔ شراب پینا (۱۹) کھانا۔ چپٹ کرنا (۲۰) حاصل
 کرنا (۲۱) چھیننا۔ کھرچنا۔ قلم پھیرنا۔ مٹانا۔ خارج کرنا۔ نام و نشان نہ رکھنا
 (۲۲) ادھیڑنا (۲۳) اکھاڑ کر پھینکنا۔ کھو ڈالنا (۲۴) مارنا۔ ٹکانا۔ جھانا۔
 (۲۵) تان اڑانا۔ گانا (۲۶) پرانگندہ کرنا۔ پریشان کرنا (۲۷) پھینکنا۔ بھگانا
 بچھانا (۲۸) بے جا تعریف کرنا (۲۹) ٹھیک نشانہ لگانا (۳۰) کسی کا انداز
 اڑا لینا۔ گانا۔ جیسے تان اڑانا۔
 اڑانی۔ (اڑا۔ اڑنی) (۱) مرث (۲) کشتی کا ایک داؤ۔ اڑنگا۔
 دوسرے کی ٹانگ میں ٹانگ اڑا کر کپڑے کا بیج۔
 اڑا ہونا (محاورہ) (۱) اڑا۔ اڑنا۔ (۲) اڑنا۔ (۳) اڑنا۔ (۴) اڑنا۔ (۵) اڑنا۔ (۶) اڑنا۔
 اڑاؤ۔ (۱) اڑا۔ (۲) اڑنا۔ (۳) اڑنا۔ (۴) اڑنا۔ (۵) اڑنا۔ (۶) اڑنا۔
 اڑاؤ کھاؤ۔ فضول خرچ۔ کھانے ٹانے والا۔
 اڑ سڑ (اڑ سڑ) (۱) اڑنا۔ (۲) اڑنا۔ (۳) اڑنا۔ (۴) اڑنا۔ (۵) اڑنا۔ (۶) اڑنا۔
 اڑ بنگ۔ (اڑ بنگ) (۱) اڑنا۔ (۲) اڑنا۔ (۳) اڑنا۔ (۴) اڑنا۔ (۵) اڑنا۔ (۶) اڑنا۔
 اڑ بنگا۔ (اڑ بنگا) (۱) اڑنا۔ (۲) اڑنا۔ (۳) اڑنا۔ (۴) اڑنا۔ (۵) اڑنا۔ (۶) اڑنا۔
 روک۔ اڑ۔ (۱) اڑنا۔ (۲) اڑنا۔ (۳) اڑنا۔ (۴) اڑنا۔ (۵) اڑنا۔ (۶) اڑنا۔
 اڑ بھگانا۔ (اڑ بھگانا) (۱) اڑنا۔ (۲) اڑنا۔ (۳) اڑنا۔ (۴) اڑنا۔ (۵) اڑنا۔ (۶) اڑنا۔
 اڑ بھنبیری ساوان آیا (ہ۔ مٹل) کسی کو اتفاقاً مل جانے اور وہ گلچھے سے اڑنے لگے
 تو تڑپتے لگتے ہیں یہی دن میں خوب مزے کرے۔
 اڑتا لیس۔ (اڑتا لیس) سینتالیس کے بعد کا عدد۔ چالیس اور آٹھ۔
 اڑتلا۔ (اڑتلا) (۱) اڑنا۔ (۲) اڑنا۔ (۳) اڑنا۔ (۴) اڑنا۔ (۵) اڑنا۔ (۶) اڑنا۔
 اڑتلا (یکڑنا) لینا (۱) پناہ لینا۔ حمایت میں آنا۔ ہمارا لینا (۲) ہمانہ کرنا۔ غدر کرنا
 اڑتلا۔ (اڑتلا) (۱) اڑنا۔ (۲) اڑنا۔ (۳) اڑنا۔ (۴) اڑنا۔ (۵) اڑنا۔ (۶) اڑنا۔
 اڑتی۔ (اڑتی) (۱) اڑنا۔ (۲) اڑنا۔ (۳) اڑنا۔ (۴) اڑنا۔ (۵) اڑنا۔ (۶) اڑنا۔
 اڑتی بیٹھک۔ دونوں پاؤں کو سیٹ کر اٹھنے بیٹھنے ہونے کے بڑھنا یا پیچھے ہٹنا۔
 بیٹھک کا ایک انداز۔
 اڑتی بیماری۔ وہ بیماری جو ایک دوسرے کو لگ جاتی ہے۔ متعدی مرض۔
 پھوٹتی بیماری۔
 اڑتی بڑنی خبر۔ افواہ۔
 اڑتی تول۔ کم تول۔
 اڑتی چڑیا کو پھانسا۔ اڑتی چڑیا کے پر لگانا۔ کمال نظر باز ہونا۔ دل کی بات
 سمجھ جانا۔ بھانپنا۔ ناٹنا۔ تیر پچھانا۔ قیافہ شناس ہونا۔
 اڑتی سی (خبر) افواہ۔ بھنگ۔ بانرادی اور بے تحقیق بات۔ اڑتی بڑنی خبر۔ گپ۔
 اڑتیش۔ (اڑتیش) (۱) اڑنا۔ (۲) اڑنا۔ (۳) اڑنا۔ (۴) اڑنا۔ (۵) اڑنا۔ (۶) اڑنا۔
 اڑ جاننا۔ (اڑ جاننا) (۱) اڑنا۔ (۲) اڑنا۔ (۳) اڑنا۔ (۴) اڑنا۔ (۵) اڑنا۔ (۶) اڑنا۔
 بھاگ جانا۔ کافر ہو جانا (۳) غائب ہو جانا (۴) دور ہو جانا (۵)

کسی چیز کا رنگ جاتا رہنا یا پھیکا پڑ جانا (۶) کٹ جانا۔ قلم ہوجانا۔ جدا
 ہوجانا (۷) مٹ جانا (۸) غارت ہوجانا۔
 اڑ جائے۔ (اڑ۔ اڑنا۔ اڑنا) مرث جائے۔ غارت ہو (دعا)
 اڑ چلنا۔ (اڑ چلنا) (۱) اڑنا۔ (۲) اڑنا۔ (۳) اڑنا۔ (۴) اڑنا۔ (۵) اڑنا۔ (۶) اڑنا۔
 قدم رکھنا (۳) بدلاہ بنا۔ بدلی اختیار کرنا۔ آواز ہوجانا۔
 اڑ چن۔ (اڑ چن) (۱) مرث [کاوٹ۔ وقت۔ تعطل۔ بھران
 اڑس۔ (اڑس) (۱) اڑنا۔ (۲) اڑنا۔ (۳) اڑنا۔ (۴) اڑنا۔ (۵) اڑنا۔ (۶) اڑنا۔
 اڑس لینا۔ (محاورہ) (۱) اڑنا۔ (۲) اڑنا۔ (۳) اڑنا۔ (۴) اڑنا۔ (۵) اڑنا۔ (۶) اڑنا۔
 اڑ سنہ۔ (اڑ سنہ) [ہ صغ] ساٹھ اور آٹھ ستر سنہ کے بعد کا عدد۔
 اڑ سنہ۔ (اڑ سنہ) [ہ صغ] (۱) اڑنا۔ (۲) اڑنا۔ (۳) اڑنا۔ (۴) اڑنا۔ (۵) اڑنا۔ (۶) اڑنا۔
 بچھونا (۳) تہہ کرنا (۵) بھر دینا۔ (۶) منہ بند کر دینا۔
 اڑ کے۔ (اڑ کے) [ہ صغ] (۱) اڑنا۔ (۲) اڑنا۔ (۳) اڑنا۔ (۴) اڑنا۔ (۵) اڑنا۔ (۶) اڑنا۔
 زیادہ۔ بہت سے بہت۔ (۳) تیزی سے۔
 اڑ کے (کر) کہاں جاؤ گے۔ (محاورہ) کہاں بھاگ کر جا سکتے ہو پچھ کر کہاں جاؤ گے
 اڑ کے گنا۔ (محاورہ) ایک کی بیماری دوسرے کو لگ جانا۔
 اڑ کے ملنا۔ (۱) از خود پھوچ جانا (۲) بغیر دیکھے کے پھوچ جانا (۳) بڑے اشتیاق سے ملنا
 اڑ کے منہ میں کھیل نہیں گئی ہے۔ [ش] کچھ نہیں کھا یا ہے۔ ذرا بھی غذا
 نہیں کھائی۔
 اڑ کرنا۔ (اڑ کرنا) (۱) اڑنا۔ (۲) اڑنا۔ (۳) اڑنا۔ (۴) اڑنا۔ (۵) اڑنا۔ (۶) اڑنا۔
 (۲) کارڈوں کا ڈالنا۔
 اڑ گیا۔ (اڑ گیا) (۱) اڑنا۔ (۲) اڑنا۔ (۳) اڑنا۔ (۴) اڑنا۔ (۵) اڑنا۔ (۶) اڑنا۔
 اڑم۔ (اڑم) (۱) اڑنا۔ (۲) اڑنا۔ (۳) اڑنا۔ (۴) اڑنا۔ (۵) اڑنا۔ (۶) اڑنا۔
 اڑن۔ (اڑن) (۱) اڑنا۔ (۲) اڑنا۔ (۳) اڑنا۔ (۴) اڑنا۔ (۵) اڑنا۔ (۶) اڑنا۔
 غائب ہوجانے والا۔ ناپید ہوجانے والا۔
 اڑن پھل۔ وہ فرضی پھل جس کے کھانے سے اڑنے کی طاقت پیدا ہوجاتی ہے۔
 اڑن جوگا۔ مٹ جانے کے قابل۔ مرنے جوگا۔
 اڑن کھینچو ہونا۔ چل دینا۔ ناپید ہونا۔ غائب غلہ ہوجانا۔
 اڑن فاختہ۔ سیدھا سادا۔ ٹورکھ۔
 اڑن کھٹولا۔ اڑنے والا تخت تخت رداں۔ پروں کے سیر کرنے کا تخت۔
 اڑن کھائی۔ دیکھے اڑان کھائی۔
 اڑنا۔ (اڑنا) (۱) اڑنا۔ (۲) اڑنا۔ (۳) اڑنا۔ (۴) اڑنا۔ (۵) اڑنا۔ (۶) اڑنا۔
 اڑنا۔ (۱) اڑنا۔ (۲) اڑنا۔ (۳) اڑنا۔ (۴) اڑنا۔ (۵) اڑنا۔ (۶) اڑنا۔
 آواز ہونا (۸) شس سے س نہ ہونا۔ سرکنا۔ جینیش نہ کرنا۔
 اڑنا۔ (اڑنا) (۱) اڑنا۔ (۲) اڑنا۔ (۳) اڑنا۔ (۴) اڑنا۔ (۵) اڑنا۔ (۶) اڑنا۔
 تہ اڑ جانا (۳) فعل اڑنا (۴) غائب ہونا۔ چوری ہونا (۵) ہمت جلد رفت
 ہوجانا (۶) اڑنا۔ (۷) اڑنا۔ (۸) اڑنا۔ (۹) اڑنا۔ (۱۰) اڑنا۔ (۱۱) اڑنا۔ (۱۲) اڑنا۔
 طرز سے بھرتا (۹) کھایا پیسا جانا (۱۰) حاصل ہونا (۱۱) تمنا (۱۲) ادھر جانا۔
 (۱۳) ہلاک ہوجانا (۱۴) گانا (۱۵) ناپود ہوجانا (۱۶) اڑنا۔ (۱۷) اڑنا۔ (۱۸) اڑنا۔
 پرگنا۔ نشانہ ہونا (۱۸) فوجنا (۱۹) بے کئی بانک لگانا (۲۰) پھٹنا۔ پھوٹ
 پڑے ہونا (۲۱) ساٹھ ہونا۔ دہرائی ہونا (۲۲) تباہ و برباد ہونا (۲۳) پھرنے

بڑھا ہوا ہے۔

اڑھنا۔ [ق۔ مص] اڑنا۔ ٹرکنا۔ ٹھہر جانا۔

اڑھتیا۔ (اڑھی۔ یا) [ہ۔ امت] (۱) ڈھائی سیر کا وزن ۲ اڑھائی گنے کا پھاڑا۔

(۳) بچوں کی اصطلاح میں سنجور (مزل تارے) کا ایک مقام۔

اڑھی۔ (اڑھی۔ امت) [ہ۔ امت] (۱) مشکل سختی۔ مصیبت۔ تنگی۔ (۲) ضرورت جہاں

(۳) تمار بازوں کی اصطلاح میں شکل داؤں۔

اڑھی مار۔ (۱) بار مار (۲) فریبی۔ رعنا باز

اڑھی مشکل۔ مشکل میں مشکل۔

اڑھی اڑھی طاق پڑھی۔ [مشل] زور زور مشور ہو گئی

اڑھی بڑھی بانٹ۔ [ہ۔ امت] افزاء۔ یک۔ ناقابل اختیار۔

اڑھی ڈالی ناضی کے سر ٹری۔ [مشل] پھال بٹا اپنے سر آدے۔ دوسرے کی

مصیبت اپنے سر پر بنا۔

اڑے تھڑے ہیں۔ (اڑے۔ تھ۔ تھے۔ میں) [ہ] ضرورت کے وقت۔

مصیبت کے وقت۔

اڑے وقت۔ (محاورہ) (اڑے۔ وقت) [ہ۔ امت] مصیبت کے وقت

اڑے وقت کا گھنٹا [مشل] اس چیز کے متعلق کتنے ہیں جو سخت ضرورت

سے وقت کام آنے کے قابل ہو۔

اڑے ہڑھائے (اڑے۔ اڑے۔ اڑے۔ جائے) [ہ] تباہ ہو۔ برباد ہو جائے۔

پند ہو جائے۔ (بددعا)

اڑے اڑے پھرتے ہو۔ [ہ] (محاورہ) دکھائی نہیں دیتے ملتے نہیں۔

قابل میں نہیں آتے۔

اڑیل۔ (اڑیل۔ ہ) [ہ۔ صفت] اڑیلنے والا۔ صدی۔ ہٹیل۔ سرکش۔

اڑیل۔ (اڑیل۔ ہ) [ہ۔ صفت] اڑیلنے والا۔ صدی۔ ہٹیل۔ سرکش۔

اڑیل۔ (اڑیل۔ ہ) [ہ۔ صفت] اڑیلنے والا۔ صدی۔ ہٹیل۔ سرکش۔

اڑیل۔ (اڑیل۔ ہ) [ہ۔ صفت] اڑیلنے والا۔ صدی۔ ہٹیل۔ سرکش۔

ا۔ ز

ا۔ ز۔ [ف۔ حرف جر سے

ازا بند اتانا انتہا۔ (ف) شروع سے آخر تک۔

ازاں۔ (ازاں) [ف] س سے۔

ازاں بعد۔ [ف] اس کے بعد۔ اس وقت تک۔

ازاں جملہ۔ سب میں سے۔ ان میں سے۔

اڑبر۔ نوک زبانی۔ زبانی یاد کر لینا۔ حفظ کر لینا۔

اڑبر۔ نوک زبانی۔ زبانی یاد کر لینا۔ حفظ کر لینا۔

ازبرائے خدا۔ خدا کے لیے خدا کے واسطے۔

ازلیس۔ (۱) ہمت زیادہ۔ نہایت۔ (۲) تیرہ غرض نہایت۔

ازلیس کہ۔ [ف۔ حرف شرط] چونکہ۔

ازحد۔ نہایت۔ بے حد۔ حد سے زیادہ۔

ازخرداں خطا دا زبیر کا عطا۔ [مشل] چھوٹوں سے غلطی ہوتی ہے بڑوں

(۲۳) جلنا۔ شعلہ دینا (۲۵) پھیلنا۔ مشہور ہونا (۲۶) رنگ پھیکا پڑنا

(۲۷) پریشان دیر آگندہ ہونا (۲۸) عیش و عشرت کرنا (۲۹) تیز چلنا۔

(۳۰) ہنسی مذاق ہونا۔

اڑ (ناگن) ناگنی۔ (اڑ۔ ناگنی۔ ناگ۔ فی) [ہ۔ امت] (۱) سابقین جو اڑ کے

کاٹی ہے (۲) (مجازاً) غصے والی عورت جھگڑا اور عورت

اڑ چکو۔ (اڑ۔ ٹن۔ کو) [ہ۔ صفت] اڑنے والا۔ اڑنے کی صلاحیت رکھنے والا

جو اڑ سکے۔

اڑنگ۔ (اڑنگ۔ ٹنگ) [ہ۔ امت] ڈھیر۔ انبار۔

اڑنگ بڑنگ۔ (۱) بھول اور بے سرو پا بانیں بے تکی باتیں (۲) بیچ دار عمارت

ٹپڑھا (۳) لڑکوں کا کھیل۔

اڑنگ بڑنگ ہو جانا۔ (محاورہ) جگہ سے ہٹ جانا بے ترتیب ہو جانا۔

اڑنگا۔ (اڑنگ۔ ٹنگ) [ہ۔ امت] (۱) کشتی کا ایک بیچ جس سے حریف کو اڑس کی

ٹانگ میں اپنی اڑی ٹانگ اڑھی کی طرح مار کر گرا دیتے ہیں (۲) روک۔ اڑ۔

مزاحمت۔ وقت۔ رخنہ۔

اڑنگا لگانا۔ (محاورہ) ہوتے ہوئے کام کو روک دینا۔ رخنہ ڈالنا۔ خارج ہونا۔

اڑنگا مارنا۔ (محاورہ) (۱) اڑنگے کا بیج کرنا (۲) خارج ہونا۔ سدراہ ہونا

رخنہ انداز ہونا۔

اڑنگے پر (پڑھانا) مارنا۔ اڑنگے پر چڑھا کر مارنا۔ (محاورہ) داؤں پر

پڑھانا۔ فریب دے کر نابو میں لانا۔

اڑواڑ۔ (اڑ۔ واڑ) [ہ۔ امت] ٹیک۔ ٹھوٹی۔ ستون۔ کھم۔ اڑان۔ اڑانا

وہ کڑی جو ہجرت وغیرہ کے بیچے لگا دیتے ہیں تاکہ وہ گزے نہیں۔

اڑوس پڑوس۔ (اڑوس۔ پ۔ پڑوس) [ہ۔ امت] قرب و حوار۔ آس پاس۔

اڑوسی پڑوسی۔ (اڑوسی۔ پ۔ پڑوسی) [ہ۔ امت] آس پاس کا رہنے والا

ہم سارے۔

اڑھانا۔ (اڑھانا۔ [ہ۔ مص] اڑھنا کا متعدی المتعدی۔

اڑھائی۔ (اڑھائی۔ [ہ۔ صفت] دوا اور آدھا۔ ڈھائی۔

اڑھائی اچھر۔ مختصر سخن نہایت پُر تاثیر باتیں۔

اڑھائی اینٹ کی مسجد الگ بنانا۔ اڑھائی چاول الگ گلانا۔ (محاورہ)

سب سے الگ رائے رکھنا۔

اڑھائی بکائن میاں باغ میں کافی حرم محل خانہ میں۔ [مشل] جب کوئی

بے حقیقت آدمی نئی بات سے توجہ پھیل گئے۔ کم ظرف ہے۔ اڑھال ہے۔

اڑھائی جیلو لہو (پینا) پی لینا۔ مار ڈالنا۔ (موت نہیں نہایت غصہ کی حالت میں

کتنی ہیں)

اڑھائی دن سقے نے بھی بادشاہت کی ہے [مشل] انقلاب زمانہ

سے کبھی اڑھائی اعلیٰ مرتبے پر پہنچ جاتا ہے (نظام سقے کی طرف اشارہ

ہے جس سے ہمایوں کی جان بچائی گئی اور اس کے عوض ہمایوں نے اسے

ڈھائی دن کے لیے بادشاہ بنا یا تھا)

اڑھائی دن کی بادشاہت۔ [مشل] ناپائدار یا تھوڑے دنوں کی حکومت

اڑھائی گھڑی کی موت آئے۔ (بددعا) زور اُمر جائے۔

اڑھائی ہانڈھی کی گڈھی نو ہانڈھی کا بیج۔ [مشل] بے شرارت میں ماں سے بھی

اُڑکیک - (اُڑ - بکت) [ت - ا - ا] نرکوں کے ایک قبیلے کا نام۔
 اُڑوٹھا - (اُڑ - و - حاتم) [ع - ا - ا] اہنہ - بھیر - بھج -
 اُڑوواج - (اُڑ - و - و) [ع - ا - ا] شادی کرنا - نکاح کرنا۔
 اُڑو یاؤ - (اُڑ - و - یاد) [ع - ا - ا] زیادہ ہونا - کثرت - زیادتی۔
 اُڑو رتی - (اُڑ - رتی) [ع - ص - ف] نیلا - نیلگوں - آسمانی۔
 اُڑو رتی چشم - گرجا - گرجہ چشم - نیلی آنکھ والا۔
 اُڑو کیا - (اُڑ - کیا) [ع - ا - ا] نکی کی جمع - ذہین لوگ - ستر سے لوگ۔
 اُڑو ل - (اُڑ - ل) [ع - ا - م] (۱) وہ زمانہ جس کی کوئی ابتدا نہ ہو (۲) مخلوق
 کی پیدائش کا دن (۳) شروع - آغاز - مبدا۔
 اُڑو لی - (اُڑ - لی) [ع - ص - ف] ہمیشہ سے - دوامی جس کی کوئی ابتدا نہ ہو۔
 اُڑو منہ - (اُڑ - منہ) [ع - ا - ا] زمانہ کی جمع - نسلے۔
 اُڑو واج - (اُڑ - واج) [ع - ا - ا] (۱) زوج کی جمع - جوڑیاں (شہرہ ادبی) (۲)
 (۲) [م] زوج کی جمع - بیویاں - منکوحہ عورتیں۔
 اُڑو واج مطہرات - (۱) پاک بیبیاں (۲) سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم
 کی بیویاں۔
 اُڑو یار - (اُڑ - یار) [ع - ا - ا] ذہر کی جمع - کلیاں - بے کھلے پھول۔
 اُڑو یار - (اُڑ - یار) [ع - ا - ا] (۱) چراغ جتنا (۲) آگ سگانا (۳) پھول کھلنا۔
 اُڑو زہر - (اُڑ - زہر) [ع - ص - ف] نہایت چمکیلا - بہت روشن خوبصورت (۲) ہر کسی کے مشہور
 درس کا جامعہ ازہر جو علم پھلانے کے نام کی ادارت تک قائم ہے۔
 اُڑو زہری - جس نے جامعہ ازہر میں تعلیم حاصل کی ہو - جامعہ ازہر سے منسوب۔

ا - ژ

اُڑوڑ - (اُڑ - وڑ) [ف - ا - ا] سانپوں کی ایک عظیم الجثہ قسم - اُڑوڑا - جمع: اُڑوڑا
 اُڑوڑار - سانپ کی ایک بڑی قسم۔
 اُڑوڑا ہی - ایک مچھلی جو غصے کی حالت میں اپنے جسم سے نہایت خطرناک
 برقی شفا میں خارج کرتی ہے۔
 اُڑوڑوڑی - حضرت موسیٰ کا وہ عصا جو اُڑوڑا بن جاتا تھا۔
 اُڑوڑوڑا - (اُڑ - وڑا) [ف - ا - ا] اُڑوڑ - اُڑوڑ - اُڑوڑ - بہت بڑا سانپ۔
 اُڑوڑے کے منہ سے پھرے۔ [م] بڑی مصیبت سے نجات پائی
 موڑی کے بچے سے چھٹے۔
 اُڑوڑے کے منہ میں پاؤں رکھنا۔ [م] خطرناک گناہ۔
 اُڑوڑے کے منہ میں چھہ مچھنا۔ (معاذہ) بُرے آدمی یا موڑی کے حوالے کرنا
 خطرناک جگہ بیچ دینا۔
 اُڑوڑے کے منہ میں ہاتھ (دینا، ڈالنا) - (معاذہ) خطرناک کام کرنا - نہایت
 نوزی اور ضرر رساں شخص کو چھڑانا۔
 اُڑوڑے کے منہ میں ہونا - (معاذہ) دشمن کے چنگل میں پھینسا موڑی سے سابقہ پڑنا۔
 اُڑوڑاٹ - (اُڑ - وڑاٹ) [ف - ا - م] [م] بہت جوش یعنی سونے چاندی
 تانبے پتیل - رانک - حیرت اور رعب کی مرکب دھات۔
 اُڑوڑاٹ - دیکھیے از دھام۔

کا کام بخش دینا ہے۔
 ازخس کونے بس است - (ف) [م] دیکھ سے بال بل جانا بھی غنیمت ہے
 نالائق سے تھوڑی سی بھلائی بھی بہت ہے - کجس سے تھوڑی حیرت
 بھی اچھی ہے۔
 از خود - (۱) آپ سے - خودی - اپنے آپ خود بخود (۲) نصلاً - عملاً -
 (۳) بلا امدادِ خیرے - بلا سارے۔
 از خود رفتگی - آپے سے باہر ہونا - بے خودی۔
 از خود رفتہ - آپے سے باہر روانہ - باؤ لاجنون بے ہوش بے خود - منوالا۔
 از دیدہ دور از دل دور - [م] [م] جو نظر سے دور ہو وہ دل سے بھی دور
 ہو جاتا ہے۔
 از راہ - (ف) طریقہ سے - نظر سے - بطورِ جیسے از راہ عنایت - از راہِ کم و فری
 از راہِ محبت - پیار کے طریق سے - دوستی کے طور سے۔
 از رفتے - بضر - برتنا - کسی چیز کی بنیاد پر۔
 از سر تا پا - سر سے پاؤں تک - اول سے آخر تک - بالکل - تمام۔
 از سر نو نئے سرے سے۔
 از غیب - غیب سے۔
 از غیبی (۱) پوشیدہ طور سے - نامعلوم طریقے سے - گپت (۲) خدا کی طرف
 سے - خام غیب سے - غیب سے۔
 از غیبی تھیٹر (دھکا - ہلا پنڈ - گولا - گھونسا - آسمانی بلا - آفتِ سادی - سہ
 مصیبت جو یکایک دام ہو جائے۔
 از غیبیا - دلدازنا - حرامی۔
 از کار رفتہ - نکما - کام کے ناقابل۔
 از ما حسرت کہ بر ما حسرت [م] ہم پر جو مصیبت آئی ہے وہ اپنے ہی ہاتھوں
 کی لائی ہوئی ہے - اپنے کیے کی سزا ہے۔
 ازیں - (ف) [م] [م] اس سے (از - این کا مرکب)
 ازیں پیش - (ف) [م] اس سے پہلے۔
 ازیں شورماندہ و ازیاں شورماندہ - [م] [م] ادھر سے پھکار ادھر سے دھکار
 نہ ادھر کا نہ ادھر کا - ادھر سے مردود - ادھر سے ملعون۔
 ازار - (ا - زار) [ع - ا - م] [م] [م] پاجا - سہن - ستن - شتور۔
 ازار بند - نا ڈا - کر بند۔
 ازار بند کا رشتہ - ازار بندی رشتہ - جو رڈ کی طرف کا رشتہ - سرسری رشتہ۔
 (معاذہ) اس کا استعمال غیر کفو کی رشتہ داریوں میں ہوتا ہے۔
 ازار بندی ڈھیلی - بکار - ناحشر عورت۔
 ازار بندی کچی - باعصمت عورت۔
 ازار بند نہ کھلنا - عورت کا کنوارا ہونا۔
 ازاد سے باہر ہونا - مانے غصے کے پہلے میں رہنا - جلسے سے باہر ہونا۔
 ازاد میں ڈال کر پھینکا - کسی کا ذرہ ہونا - خیال میں نہ لانا - خاطر میں نہ لانا۔
 ازالہ - (ا - ز - ا) [ف - ا - ا] [م] [م] ناکرنا - ڈور کرنا - مٹانا۔
 ازالہ بکر کنوارا ہونا - کنواری عورت سے پہلی بار ہمبستی کرنا۔
 ازالہ حیثیتِ عرفی - عورت میں مثل ڈالنا - آبروریزی کرنا - شہرتِ عام بگاڑنا۔

اس-۱

اس-۱ [اشارہ قریب اور ضمیر حاضر] یہ- یہی۔
 اس بارش کی اور ہی ہوا ہے۔ [مثل] یہاں کے طور طریقے الگ ہیں۔
 یہاں ضرورت حال مختلف ہے۔
 اس برتنے پر تنستا بانی۔ [مثل] ناقابلیت پر یافت کا دعویٰ نامردی پر
 مردی کا اظہار۔
 اس بھول کا خدا حافظ۔ [مثل] اس بھول کا کوئی علاج نہیں (ہست بھولنے
 والے سے کہتے ہیں)
 اس بارہ دریا کا قریب کنارہ۔
 اس پر بھی۔ باوجود اس کے۔ اتنا کچھ ہو لینے کے بعد۔
 اس پر نہ بھولو۔ بھولو۔ اس بات پر بھول نہ کرو۔ اس پر نہ بھولو۔
 اس پر نہ جاؤ۔ بر خیال نہ کرو۔ اس پر توجہ نہ کرو۔
 اس پھر میں نہ پڑو۔ (معاورہ) اس جگہ میں نہ چھینو۔ دھوکا نہ کھاؤ۔
 اس جا۔ اس موقع پر۔ اس مقام پر۔
 اس دم۔ اس وقت۔ فرما۔
 اس سوا۔ بجز اس کے۔ اس کو چھوڑ کے۔
 اس سے۔ اس سبب سے۔ اس وجہ سے۔
 اس سے اچھا تو خدا کا نام ہے۔ (مثل) بہت اچھی چیز ہے۔ اس سے
 بڑھ کر کوئی اچھی چیز نہیں۔
 اس سے تو کھٹے کی ناک بھی نہیں کھٹی۔ [مثل] بہت گندہ ہے چھری
 یا چاقو کے متعلق کہتے ہیں۔
 اس سے کیا پورا پڑے گا۔ یہ کافی نہیں۔ بیٹھیں اچھی طرح کام نہ کر سکے گا۔
 اس سے ہاتھ دھولو۔ (معاورہ) اس کا خیال چھوڑ دو۔ اس سے صبر کرو۔
 اس طرح۔ اس طریقہ سے۔ یوں۔
 اس قدر۔ اس مقدار میں۔
 اس قدر کا۔ اتنا زیادہ۔ بہت زیادہ۔
 اس کا ندھے چڑھ اس کا ندھے اتر۔ [مثل] ہم کوئی بات ہی عذر نہیں ہے
 آپ کی خاطر امد عایت ہر طرح منظور ہے۔
 اس کا ان سُن کے اس کا ان اُڑا دینا۔ بات خیال میں نہ رکھنا۔ بات پر کوئی
 توجہ نہ کرنا۔ کتنا نہ ماننا۔
 اس کو بھٹی کے دھان اس کو بھٹی میں کرنا۔ [مثل] بیکاری میں چیزوں کی
 اُلٹ پھیر کرتے رہنا۔ بے فائدہ کام کرنا۔
 اس کو چیل کوڑوں کو دوں۔ (معاورہ) بوٹی بوٹی چیل کوڑوں کو دے دوں غصے
 میں عورتیں کوڑنے کے طور پر کہتی ہیں۔
 اس کو کیا کہتے ہیں نوجب اور حیرت کے کوئی پر بعد سوال کے ستم ہے۔
 اس کو وہاں ماریں جہاں پانی نہ ہو۔ [مثل] بددعا۔ اس پر ہرگز نرس نہ
 کیا جانا چاہیے۔ یہ تو اس سزا کا ستم ہے کہ مر جائے تو اس کے ستم میں
 پانی شیلکنے والا کوئی نہ ہو۔
 اس کی چھائی دیکھ کر سراسیمہ ہے۔ [مثل] اس کے حوصلے اور جرأت کی تعریف کیجیے۔

اس کے دل گڑھے کو دیکھو اس کے حکم کو دیکھو۔ [مثل] اس کی جرأت
 دلیری۔ ہمت اور حوصلہ کی داد دیکھئے۔
 اس گھر کا باؤ آدم نرالا ہے۔ [مثل] یہاں کا دستور سب سے جدا ہے یہاں
 کا طریقہ سب سے الگ ہے۔
 اس مرض کا تونہ میں نہیں پالتا۔ میں اس کچھڑے میں نہیں پڑتا۔
 اس میں کچھنی ہے۔ اس میں کوئی چال ہے۔ دال میں کچھ کا لالہ ہے۔
 اس وقت تم کہاں ہو۔ (معاورہ) تم کس سوچ میں ہو۔ اس وقت ہوش
 میں نہیں ہو۔
 اس ہاتھ سے اس ہاتھ لے۔ ہر کام کا بدلہ فوراً ملتا ہے
 اس۔ [اشارہ بعید] ڈہ۔ ڈہی
 اس بار۔ (۱) دریا کے دوسرے کنارے پر
 اس پر بھی۔ اس کے باوجود۔
 اس کا فنی منہ جھلس دو۔ اس کو بھی کچھڑے دلا کر ٹالو۔
 اس کا منہ کالا۔ (معاورہ) بددعا۔ رؤساء۔ منہ کالا۔
 اس کا منہ کالا ہو گیا۔ (معاورہ) سخت جھوٹا ثابت ہوا ہے۔ اب وہ منہ بھی نہ کھا سکے
 اس کی جان کو صبر۔ (معاورہ) کسی کے ہاتھوں تکلیف پہنچنے پر۔
 اس کی جوتی کو۔ (معاورہ) اس کو کیا غرض پڑی ہے۔
 اس ہاتھ سے اس ہاتھ لے۔ [مثل] ہر کام کا فوراً بدلہ ملتا ہے جو جیسا
 کرے گا دیا جائے گا۔
 اس کی ذررت کے (کارخانے) کھیل ہیں۔ خدا کی شان کے جلوس میں [اسی
 تعجب اور حیرت کی بات پر کہتے ہیں جو خلاف قیاس و امید ہو]
 اس کی لاشی میں آواز نہیں۔ خدا کا ترانہ گمانی ہوتا ہے۔
 اس کے چھپ تو چھپوس بھی نہیں۔ [مثل] نادر ہے۔ تلاش ہے۔ کنگال ہے۔
 اس کے دینے کے ہزاروں ہاتھ ہیں۔ بندوں کو دینے کے لیے خدا کے
 پاس لے شمار ذرائع ہیں۔
 اس کے منہ کی کسی کی زبان سے نکلی ہوئی بات۔
 اس کے نام کا تو کتا بھی نہیں پالنے۔ [مثل] کسی سے انتہائی نفرت کے
 اظہار کے لیے کہتے ہیں۔
 اس نے رکھا اس نے اٹھایا۔ [مثل] جب دو آدمیوں میں ایک جیسی بات
 ہو تو کہتے ہیں۔
 اسی کی جوتی اسی کے سمر پر۔ [مثل] جب کسی کے ہاں سے کچھ لے اور اُسے
 اُس کی کسی ضرورت یا کام پر صرف کر دیا جائے تو کہتے ہیں۔
 اسی اٹھائیں۔ اسی وقت۔ اسی اٹھائیں
 اسی برتنے پر۔ اسی حوصلے پر۔ اسی توت پر۔ جب کوئی کسی کام کا دعویٰ کرے
 لیکن نہ کر پائے تو کہتے ہیں۔
 اسی دن کو پالا تھا۔ پال کر بڑا آیا تھا۔ [مثل] اپنی اولاد یا پروردہ سے رنج
 اور تکلیف پہنچے تو کہتے ہیں۔
 اسی میں بہتری ہے (خیریت ہے) [مثل] سمھاتے ہوئے یا دھمکانے
 ہوتے کہتے ہیں۔
 اسی وقت۔ ابھی۔ نوراً۔ اب۔

اُسے چھپاؤ اُسے دکھاؤ۔ [مثل] دو شخصوں یا دو چیزوں میں گری مٹانا بہت ہوتی تو کہتے ہیں۔
 اسانڈہ۔ (۱۔ اسات۔ ذہ) [ع۔ ۱۔ مذ] اسٹاڈ کی جمع۔ اسٹاڈ کا ملان فنِ معلّم
 آسارا۔ (۱۔ سا۔ را) [ع۔ ۱۔ مذ] رشیم کا ڈور جس پر کلابتوں کا نارجھٹلنے
 ہیں۔
 آسارا۔ (۱۔ سارا) [ع۔ ۱۔ مذ] پھیر۔ سائبان۔ برآمدہ۔ سد۔ دلیز۔ آبِ نلال
 بھگونی جھوٹی دواؤں کا مخفّر، ہوا پانی۔
 آسارنت۔ [ع۔ مٹ] تپد۔ اسیری
 آسارنا۔ [ع۔ اص] پانی نکالنا۔ دوا بھگو کر اس کا پانی نھرانا۔ [پ۔ عمارت بنانا
 (۲) [ع۔ حتم کرنا۔ چٹانا۔ علیحدہ کرنا۔
 آسارٹھ۔ (۱۔ سا۔ ٹھ) [ع۔ ۱۔ مذ] ہندی کا جو تھا جیند۔ برسات کا پہلا جیند۔
 یہ عمر نصف جون سے نصف جولائی تک رہتا ہے۔
 آسارٹھ جوڑے برکھا ہو دے۔ [ع۔ مثل] اسٹھ میں گرمی پڑے تو بارش ہو۔
 آسارٹھ کے درزی۔ اس کو کہتے ہیں جو بیکار مارا مارا پھرے۔ اور اس کو
 کوئی نہ پوچھے۔
 آسارٹھیا۔ (۱۔ سا۔ ٹھا) [ع۔ ۱۔ مذ] (۱) باریک بیٹے ہوئے رشیم کا ناکا (۲)
 ایک قسم کی کھانڈ کچی مینی۔
 آسارٹھی۔ (۱۔ سا۔ ٹھی) [ع۔ ۱۔ مذ] (۱) فصل ریح۔ گیہوں جو۔ چنا وغیرہ
 (۲) ہندوؤں کا ایک یوگا۔
 آساس۔ (۱۔ سا۔ س) [ع۔ ۱۔ مذ] بنیاد۔ نیو۔ جڑ۔
 آساسی۔ (۱۔ سا۔ سی) [ع۔ صفت] بنیادی
 آسایطیر۔ (۱۔ سا۔ یطیر) [ع۔ ۱۔ مذ] اسٹارہ اور اسٹورہ کی جمع۔ قصے کہانیاں۔
 آسایطیر لائقین۔ اگلے لوگوں کے قصے کہانیاں۔
 آسایطین۔ (۱۔ سا۔ یطین) [ع۔ ۱۔ مذ] اسٹورائی جمع۔ بہت سے ستون۔
 آسافل۔ (۱۔ سا۔ فل) [ع۔ ۱۔ مذ] اسفل کی جمع۔ کینے لوگ۔
 آسالیب۔ (۱۔ سا۔ لیب) [ع۔ ۱۔ مذ] اسلوب کی جمع۔ طریقے۔ طریزیں۔ انداز
 ڈھنگ۔ وضع۔
 آسامی۔ (۱۔ سا۔ می) [ع۔ ۱۔ مذ] اسم کی جمع اسم (۱) نام (۲) لوگ (۳) آدمی
 شخص (۴) کسان۔ کاشت کار (۵) بس دین رکھنے والا۔ گاہک خریدار
 (۶) عمدہ۔ نوکری (۷) مالدار۔ امیر۔ روپے والا (اردو میں بطور واحد
 مستعمل ہے۔
 آسامی بلحاظ تحصیل کاری۔ وہ آسامی جو ذل یا بی کا حق نہ رکھتی ہو۔
 آسامی (سنانا) ٹھکانا ہے وقت بنا کر نانہ اٹھانا۔ اپنا مطلب نکالنا۔
 آسامی شکمی۔ ماتحت کاشت کار جھیتزی سا جھی۔ چھوٹا کسان۔ وہ شخص
 جسے اپنی طرف سے سامجھی کریں۔
 آسامی غیر موروثی۔ غیر موروثی کاشت کار۔ وہ کسان جس کا دوا می حق نہ
 سمجھا جائے۔
 آسامی مستقل۔ وہ کاشت کار جو زمین پر دخل پانے کا مستحق ہو۔
 آسامی موروثی۔ دوا می کاشت کار۔ وہ کاشت کار جو کاشت کاری کے باعث
 وراثت کا حق پیدا کرے۔

آسامی وار۔ آسامیوں کی ترتیب ناموں کے لحاظ سے۔
 آسانا۔ (۱۔ سا۔ نا) [ع۔ مص] برسانا چھیننا۔ غصے کو بھروسے سے جدا کرنا۔
 آسانید۔ (۱۔ سا۔ نید) [ع۔ ۱۔ مذ] اسٹاڈ کی جمع۔ وہ کتابیں جن میں حدیثیں صحیح
 راویوں کے ناموں کی لکھی گئی ہیں مثلاً بخاری۔ مسلم وغیرہ۔
 آساوری۔ (۱۔ سا۔ وری) [ع۔ ۱۔ مذ] (۱) ایک راگنی (۲) ایک قسم کا
 باریک ریشی کیرا۔
 آساؤل۔ (ت۔ مذ) قاصد۔ پیامبر۔
 آسب۔ (ت۔ ۱۔ مذ) [ع۔ ۱۱] گھوٹا۔ اسپ (۲) شطرنج کا ایک گروہ۔
 آسباب۔ (آس۔ باب) [ع۔ ۱۔ مذ] سبب کی جمع (۱) وہیں وسیلے باعث
 (۲) ضرورت کا سامان۔ آناٹہ (معنی مٹا میں بطور واحد مستعمل ہے)
 اسباب مانع ارتھ۔ ایسے سبب جو درخت لینے سے روک دیں۔
 آسباب (آس۔ باط) [ع۔ ۱۔ مذ] سبب کی جمع۔ پتے پتیاں۔ دہشتے دو ہنیاں وغیرہ۔
 آسباق۔ (آس۔ باق) [ع۔ ۱۔ مذ] بسن کی جمع۔
 آسبغول۔ اسپغول۔ (آسب۔ غول۔ غول) [ع۔ ۱۔ مذ] ایک مشہور
 دوا جس سے لعاب نکلتا ہے۔
 آسبق۔ (آس۔ بق) [ع۔ صفت] سب سے اول۔ زیادہ آگے۔
 آسب۔ (ت۔ ۱۔ مذ) [ع۔ ۱۱] گھوٹا (۲) شطرنج کا گروہ۔ جمع۔ اسپان۔
 آشیات۔ (آس۔ یات) [ع۔ ۱۔ مذ] ایک قسم کا سخت لہا۔ فولاد۔
 آسپتال۔ (آس۔ پ۔ تال) (انگریزی لفظ (Hospital) کا مورڈ۔
 (۱۔ مذ] شفاخانہ۔ ہسپتال۔ بیمارستان۔
 اسپرٹ۔ (Spirit) (آس۔ پ۔ رٹ) [انگ۔ ۱۔ مذ] (۱) روح
 نفس (۲) جوہر مجرد۔ جوہر محض۔ سنت (۳) شراب (۴) حوصلہ بہت۔
 دل گردہ۔ سرگرمی۔
 اسپرنٹو۔ (Esperanto) (آس۔ پ۔ رن۔ ٹو) [انگ۔ ۱۔ مذ]
 ایک زبان جو ڈاکٹر زین بان نے اہل یورپ کے مشترک استعمال
 کے لیے بنائی تھی۔
 اسپرنگ۔ (Spring) (آس۔ پ۔ رنک) [انگ۔ ۱۔ مذ] بیچ دار مکانی
 اسپرناخ۔ (آس۔ پ۔ ناخ) [ت۔ ۱۔ مذ] پالک۔ بچھو۔
 اسپنڈ۔ (آس۔ پنڈ) [ت۔ ۱۔ مذ] کالا دانہ۔ ایک قسم کا تخم جو عورتیں نظر بد
 دفع کرنے کی غرض سے جلاتی ہیں۔ (پن۔ ہرٹل۔
 اسپسی۔ (آس۔ پی) [ت۔ صفت] گھوڑے سے متعلق۔
 اسپسی طاقت (۱) گھوڑے کی طاقت (۲) علم سکون و حرکت (۳) اتنی طاقت
 جس سے 550 پونڈ وزن ایک سیکڑ میں ایک فٹ اٹھایا جاسکے
 ہارس پاور (Horse Power)
 اسپسی عرض البلد۔ کرہ زمین کا وہ حصہ جو عرض البلد شمالی ۳۰ درجہ اور ۳۵ درجہ
 کے درمیان ہے۔
 اسپچ۔ (Speech) (آس۔ پیج) [انگ۔ ۱۔ مذ] تقریر بیان۔ لکچر۔
 اسپید۔ (Speed) (آس۔ پیڈ) [انگ۔ ۱۔ مذ] رفتار۔ (۲) توت کار۔
 اسپیشل۔ (Special) (آس۔ پیس۔ شل) [انگ۔ ۱۔ صفت] (۱) خاص
 مخصوص۔ (۲) غیر معمولی (جیسے اسپیشل ٹرین وغیرہ)

ایسپیشلسٹ - (Specialist) (اس۔ پی۔ ش۔ لسٹ) [انگ
 صفت - ۱۔ مذ] باہر خصوصی مقتصص۔
 اسپیکر - (Speaker) (اس۔ پی۔ کر) [انگ - ۱۔ مذ] (۱) تقریر کرنے
 والا مقرر (۲) اسمیٰ کا صمد۔
 اسپینل - (Spaniel) (اس۔ پی۔ ن۔ یل) [انگ - ۱۔ مذ] ایک
 قسم کا شکاری کتا - (۲) خوشامدی۔
 آسٹنا - (اس۔ تا) (ف - ۱۔ مٹ) آتش پرستوں کے پیشوا زرتشت کی تصنیف
 تہذیب کی شرح۔
 ایشاؤ - (اس۔ تاؤ) [انگ - ۱۔ مذ] (۱) نیچے کا کھڑا ہونا (۲) نیچے اور سامنے
 کی جانب بیٹون (۳) کھڑا - ایشاؤ۔
 آسٹاؤ - (اس۔ تاؤ) (ف - ۱۔ مذ) (۱) کھانے والا عظیم گرد۔ ماسٹر (۲) تجرب کار
 مشتاق کا لقب (۳) چالاک چپتے باز۔ جمع: آسٹادان۔
 استاد بیٹھے پاس - کام آئے راس [آشل] استاد کے پاس بیٹھے سے
 کا درست ہونا ہے۔ استاد کے پاس بیٹھے والا کامیاب ہونا ہے۔
 استادگی - (اس۔ تا۔ دی) (ف - ۱۔ مٹ) (۱) کھڑے ہونے کی حالت۔ کھڑا ہونا
 قیام - (۲) مضبوطی۔ پائیداری
 استادہ - (اس۔ تا۔ وہ) (ف - صفت) کھڑا ہوا۔ جمع: استادگان۔
 آستادی - (اس۔ تا۔ دی) (ف - ۱۔ مٹ) (۱) استاد ہونا۔ کمال بہر ہندی مشتاق
 (۲) چالاک۔ ہوشیاری۔
 آستاد - (اس۔ تاؤ) (ع - ۱۔ مذ) مدرس معلم۔ استاد۔ جمع: اساتذہ
 آستاد الانام - دنیا بھر کا استاد۔ استاد روزگار۔
 آستادی - (اس۔ تا۔ دی) (ع - ۱۔ مذ) میرا استاد میرے استاد۔
 آستاکار - (ف - مذ) استاد۔ باہر بن۔ چالاک۔
 آستانی - (اس۔ تانی) (ا۔ ۱۔ مٹ) (۱) مملکت۔ آتوں۔ وہ عورت جو کھنا پھینا
 یا کوئی کام کھائے (۲) استاد کی بیوی۔
 آستبداد - (اس۔ تب۔ داؤ) (ع - ۱۔ مذ) ظلم جو جس سے حکومت کرنا مطلق العنانی
 خود مختاری۔ خود رانی (۲) بندہ ہٹ۔ استغفال۔
 آستبدادی - (اس۔ تب۔ دا۔ وی) (ع - صفت) مطلق العنان حکومت سے
 منقطع۔ نظام استبداد کا حامی۔ محبت پسند۔
 آستبدادیت - (اس۔ تب۔ دا۔ وی۔ بیت) (ع - ۱۔ مٹ) خود رانی پن۔
 مطلق العنانی۔ نظام حکومت (۲) علم و وجود۔
 آستبرق - (اس۔ تب۔ زق) (ع - ۱۔ مذ) سبز اٹلس کی قسم کا ایک ریشمی کپڑا۔
 آستبنشار - (اس۔ تب۔ شار) (ع - مذ) [انگ] بنامت ڈونگھری مانا۔
 آستبصار - (اس۔ تب۔ عمار) (ع - ۱۔ مذ) دانائی۔ بینائی۔ سوتو چھو بوجھ ہونا۔
 آستبعاو - (اس۔ تب۔ عاو) (ع - ۱۔ مذ) ڈوری علیحدگی جاننا۔
 آستثنائ - (اس۔ تب۔ ثنا) (ع - ۱۔ مذ) (۱) علیحدگی کرنا۔ جدا کرنا۔ الگ کرنا (کسی علم
 حکم سے کسی شخص یا چیز کو علیحدہ کرنا۔
 آستجابت - (اس۔ تب۔ جا۔ بت) (ع - ۱۔ مٹ) قبولیت۔ اچانک سناؤ قبول کرنا
 آستجاضہ - (اس۔ تب۔ عاضہ) (ع - ۱۔ مٹ) حیض کثرت سے آنا۔ وہ خون جو
 بیماری کے سبب حیض کے آیا کے سوا دوسرے دنوں میں بھی آتا ہے۔

استخارہ - (اس۔ ب۔ مالہ) (ع - ۱۔ مذ) حالت تبدیل ہوجانا۔ ایک حالت سے
 دوسری حالت پر ہوجانا۔ شکل و صورت اور خاصیت کا بدل جانا۔
 استخارہ کیسیائی - (ع - ف) مختلف چیزوں کا مل کر کیسیائی ترکیب سے ایک ہوجانا
 جیسے تانبہ اور گندھک کے مل جانے سے نیلا ہفتو کھان جاتا ہے۔
 استخسان - (اس۔ تخ۔ سان) (ع - ۱۔ مذ) پسندیدگی۔ اچھا ماننا۔ پسند کرنا۔
 استحصا - (اس۔ تخ۔ صال) (ع - ۱۔ مذ) طلب حصول حاصل کرنا (۲) چھین لینا
 (انگ) (Exploitation)
 استحصا بالجبر - زبردستی حاصل کرنا۔ ڈرا دھکا کر کوئی چیز لے لینا۔
 استحصا ناجائز - خلاف قانون طریق پر حاصل کرنا۔
 استحصار - (اس۔ تخ۔ صار) (ع - مذ) حاضری چاہنا (۲) یادداشت
 استحقار - (اس۔ تخ۔ فار) (ع - ۱۔ مذ) ذلیل جاننا۔ عذارت سے دیکھنا (۲) لغت کرنا۔
 استحقاق - (اس۔ تخ۔ قاق) (ع - ۱۔ مذ) (۱) حق طلب کرنا۔ سزاوار ہونا۔ حق
 دعویٰ۔ قابلیت۔ جمع: استحقاقات۔
 استحقاقی ترکہ - ورثے کا حق۔
 استحقاقی تخفیف - جمع بندی کی جانچ پڑتال۔
 استحقاقی شفع - حق شفع۔ ہمسائی کا حق۔ ہمسائی کی بنا پر ترجمی حق داری۔
 استحقاق شفع بر بنائے جار و خلیط - ہمسائی اور شرکت کی بنا پر خریداری
 کا حق۔
 استحقاق نالاش - تاؤ نالاش کرنے کا حق۔
 استحقام - (اس۔ تخ۔ کام) (ع - ۱۔ مذ) (۱) منسبوتی۔ استواری سبکی (۲)
 استقلال۔ قیام۔ جمع: استحقامات۔
 استخارہ - (اس۔ بت۔ خارو) (ع - ۱۔ مذ) طلب غیر۔ بکلی کی توفیق مانگنا۔
 اصطلاح شرح میں کسی بات کے کرنے نہ کرنے میں ایک خاص
 طریق پر خدا تعالیٰ سے اشارہ چاہنا۔
 استخارہ آنا - استخارہ کا رازہ دنیا۔ فال کا حسب مراد نکلنا۔ استخارے کا
 جواب اٹھنا۔
 استخارہ کرنا - کوئی کام کرنے کے لیے غیبی اشارہ چاہنا۔
 استخراج - (اس۔ تخ۔ راج) (ع - ۱۔ مذ) (۱) نکالنا۔ برآمد کرنا۔ چھانٹنا۔
 (۲) علیحدہ کرنا۔ مجید کرنا (۳) اصطلاح حساب میں بڑی رقموں میں سے
 چھوٹی رقموں کو نفع فرنی کرنا۔ جمع: استخراج۔ (انگ) (Deduction)
 استخفاف - (اس۔ تخ۔ فاف) (ع - ۱۔ مذ) سخت سبکی۔ ہلکا بھنا۔
 استخلاص - (اس۔ تخ۔ لاص) (ع - ۱۔ مذ) (۱) آزاد کرنا۔ آزادی چاہنا (۲)
 خلاصی بھینکارا۔ رہائی۔ آزادی۔
 استخوان - (اس۔ ت۔ خوال) (ف - ۱۔ مذ) ہاڑ۔ ہڈی۔ (۲) گھٹلی۔
 استخوان فروشی - مرے ہوئے بپ داد کے نام پر عزت چاہنا۔
 استدراراج - (اس۔ تدر۔ راج) (ع - ۱۔ مذ) (۱) خلاف معمول کام کرنا۔ خارج
 عادت عمل (۲) غیر مسلم سے خرنی عادات اشغال کا ظاہر ہونا۔
 استدراک - (اس۔ تدر۔ راک) (ع - ۱۔ مذ) بانا۔ سمجھ حاصل کرنا۔ جا بکرنا۔
 پہنچنا۔ سمجھنا۔ ذہن نشین کرنا (۲) کسی امر کی تلافی کرنا۔
 استدعا - (اس۔ تدر۔ عا) (ع - ۱۔ مٹ) خواہش۔ درخواست۔ دعوے۔

چاہنا طلب۔

استدلال - (اس تہ لال) [ع-۱-اند] دلیل - برطان - ثبوت (۲) دلیل چاہنا - دلیل لانا۔

آستر - (اس ستر) [ف-۱-اند] (۱) دوسرے کپڑے کی بیچے کی تہ - ابرہ کے خلاف مطلق تہ جیسے چونے وغیرہ کا آستر (۲) پتھر - استرکاری - چونے کی پانی۔

استراحت - (اس نت - راحت) [ع-۱-امث] آرام چاہنا - راحت طلب کرنا - سکھ چین۔

استرخا - (اس بتر - خا) [ع-۱-اند] ڈھیلا ہو کر ٹک پڑنا - ڈھیلا پن۔

استرداو - (اس تر - داو) [ع-۱-اند] ڈر کرنا - واپس لینا - واپسی چاہنا - استردا و نیلام - نیلام کا ٹوڑ دینا۔

استرخا - (اس تر - خا) [ع-۱-اند] (۱) خوشنودی (۲) رضامندی پوچھنا۔

آسترہ - (اس ست - رہ) [ف-۱-اند] بال موندنے کا اذکار۔

استرہ لینا - ناف کے بیچے کے بالوں کا مونڈنا - پانک لینا۔

استری - (اس ست - ری) [ہ-۱-امث] (۱) لوسے یا پینیل کا اوزار جسے گرم کر کے پڑوں کی سلوٹیں مٹانے یا سیون بھانٹنے ہیں (۲) عورت زوجہ - بیوی۔

استری دھن - جو بیغزوہ لہا جا جو عورت کو ماں باپ سے ملے - زیور وغیرہ جو شادی کے وقت خاوند سے ملے - بیوی کا مال۔

استسقا - (اس تس - تا) [ع-۱-اند] (۱) پانی مانگنا - نشینی (۲) ایک بیماری جس سے پیٹ بڑھ جاتا ہے اور پیاس بہت لگتی ہے - جلندڑ کا روگ۔

استشہاد - (اس نش - ہاد) [ع-۱-اند] طلب شہادت - گواہی چاہنا - شہادت طلب کرنا۔

استشہاد نامہ - سند - ڈپلوما۔

استصلاح - [ع-۱-امث] اصلاح پوچھنا - مشورہ لینا۔

استصواب - (اس تص - اب) [ع-۱-اند] مشورہ لینا - رائے پوچھنا - تجویز چاہنا - جمع : استصوابات

استصواب رائے (عامہ) - مشورے عام کسی مسئلے کے بارے میں عوام سے بلا واسطہ رائے لینا - (Referendum Plebiscite)

استطاعت - (اس ط - عات) [ع-۱-امث] قدرت - طاقت - بقدرت - بساطہ - دسترس - جمع : استطاعات۔

استعارات - (اس ت - عات) [ع-۱-اند] استعارہ کی جمع۔

استعارہ - (اس ت - عات) [ع-۱-اند] (۱) مانگ لینا (۲) علم یا کی اصطلاح میں مجاز کی ایک قسم جس میں کسی لفظ کے مجازی اور حقیقی معنی کے درمیان تشبیہ کا علاقہ ہوتا ہے اور بغیر حروف تشبیہ کے ضعیف معنی کو مجازی معنی میں استعمال کیا جاتا ہے۔

استعارہ بالمتضرب - اگر تشبیہ کا ذکر کریں اور تشبیہ کو چھوڑ دیں یا مضاف تشبیہ موجود ہو اور مضاف الیہ غیر موجود تو اس صورت میں استعارہ بالمتضرب ہوگا۔

استعارہ بالکنایہ - اگر تشبیہ کو چھوڑ کر تشبیہ کا ذکر کریں تو اس کو استعارہ بالکنایہ کہتے ہیں۔

استعانت - (اس ت - عانت) [ع-۱-امث] (۱) مدد و معاونت (۲) مدد مانگنا۔

استعجاب - (اس تع - جاب) [ع-۱-اند] تعجب - حیرانی - اچرج۔

استعجال - (اس تع - جال) [ع-۱-اند] جلدی کرنا جلدی چاہنا - عجلت - استعجال - (اس تع - داد) [ع-۱-امث] (۱) بیاخت - قابلیت - فطری صلاحیت (۲) آمادگی - آمادہ ہونا۔

استعفا - (اس سف - فا) [ع-۱-اند] (۱) عفو چاہنا - معافی مانگنا (۲) نوکری کو کرنے سے معافی مانگنا - نوکری چھوڑنے کی درخواست دینا - جمع : استعفاجات

استعفا دینا - نوکری چھوڑ دینا - ترک ملازمت کرنا - نوکری چھوڑنے کی درخواست کرنا۔

استعجال - (اس ت - لا) [ع-۱-اند] جلدی طلب کرنا - بڑی چاہنا۔

استعلاج - (ع-۱-اند) علاج چاہنا - مداوا چاہنی۔

استعلا - (اس تع - لام) [ع-۱-اند] دریافت حال - آگاہی چاہنا - خبر کرنا - جتلا نا جانے کی خواہش کرنا۔

استعما - (اس تع - مار) [ع-۱-اند] نوآبادی قائم کرنا - کسی مقام پر قابض ہو کر اس کی آبادی بڑھانا (۲) کسی آزاد ملک کو غلام بنا لینا۔

استعما رتیت - (ع-۱-امث) زبردستی کسی قریبی ملک کو اپنے ساتھ لانا یا دوسری ممکن آبادیوں پر قابض ہو جانا - (انگ) (Imperialism)

استعمال - (اس تع - مال) [ع-۱-اند] کام میں لانا - بڑنا۔

استعمالی - (اس تع - جلی) [ف-۱-امث] (۱) بڑنا ہوا - کام میں آیا ہوا - مستعمل - پڑنا - (۲) کام میں لانے کی چیز (۳) ایک قسم کا علمہ اور باریک چاول۔

استغاثہ - (اس ت - غاثہ) [ع-۱-اند] (۱) داد - فریاد - دعویٰ (۲) انصاف چاہنا - دعویٰ کرنا - جمع : استغاثات - استغاثے۔

استغراق - (اس تغ - راق) [ع-۱-اند] (۱) محبت کسی خیال میں ڈوب جانا (۲) خدا کی یاد میں غور چاہنا (۳) جاننا کو اولتے فرض کے لیے ذمہ دار کر دینا۔

استغراق فصل - فصل کا قرض دینا - صرف ہو جانا۔

استغفار - (اس تغ - فار) [ع-۱-اند] (۱) بخشش چاہنا - توبہ۔

استغفار کرنا - توبہ کرنا - بخشش چاہنا۔

استغفر اللہ - (اس تغ - ف - لہ) [ع-۱-امث] (۱) میں اللہ سے مغفرت چاہتا ہوں (۲) توبہ - نفرت یا کسی فعل سے انکار کی جگہ بولتے ہیں۔

استغنا - (اس تغ - نا) [ع-۱-اند] بے پروائی - بے نیازی - تنہا نگری۔

استفادہ - (اس ت - فادہ) [ع-۱-اند] فائدہ حاصل کرنا - نفع اٹھانا۔

استفادہ - (اس ت - فادہ) [ع-۱-اند] فیض پانا - فائدہ اٹھانا۔

استفقا - (اس ت - فا) [ع-۱-اند] مسئلہ پوچھنا - شرعی حکم دریافت کرنا - فتویٰ چاہنا۔

استفراغ - (اس ت - فراغ) [ع-۱-اند] فراغت چاہنا - روانے - المی

استفسار - (اس ت - فسار) [ع-۱-اند] دریافت کرنا - پوچھنا - پوچھنا - جمع : استفسانات

استفہام - (اس ت - فہام) [ع-۱-اند] دریافت کرنا - سمجھنے کی خواہش کرنا - پوچھنا۔

استفہامیہ - (ع-۱-امث) سوالیہ جس میں سوال پایا جائے (۶) علامت

استفہامت - (اس ت - فہامت) [ع-۱-امث] استقلال - تیام۔

راست کرداری - مستقیم ہونا کسی امر پر مضبوط رہنا۔ سیدھا ہونا۔
 پائیداری - مضبوطی۔
استقبال - (اس - تق - بال) (ع - ا - مذ) (۱) پیشوائی - خیر مقدم - تعظیماً آگے بڑھنا۔
 سواگت (۲) زمانہ آئندہ مستقبل
استقدام - (اس - تن - دام) (ع - ا - مذ) استقبال کرنا۔ ورثہ ہونا۔
استقرار (اس - تن - را) (ع - ا - مذ) (۱) اناکاش کرنا۔ ڈھونڈنا (۲) پیروی کرنا۔
استقرار - (اس - تن - را) (ع - ا - مذ) ٹھہرنا۔ فرار کرنا۔ طے پانا۔ قائم ہونا۔
استقرار (اس - تن - را) (ع - ا - مذ) خاص شرط پر ٹھہرتی ہوئی ڈگری۔
استقصا - (اس - تن - صا) (ع - ا - مذ) سبھی بیخ - انتہائی کوشش - پوری کوشش کرنا۔
استقلال - (اس - تن - لال) (ع - ا - مذ) قیام مضبوطی - قرار - استحکام مستقل مزاجی (۲) سلطنت یا قوم کا خود مختار ہونا۔
استکبار - (اس - تنک - بار) (ع - ا - مذ) ٹھہرنا۔ غرور۔ فخر۔ شیخی۔ بڑھم۔
استکراہ - (اس - تنک - راہ) (ع - ا - مذ) گھن کرنا۔ ناپسند کرنا۔ مکروہ جاننا۔
کراہیت۔
استکشاف - (اس - تنک - شاف) (ع - ا - مذ) کسی چیز کے اظہار کی خواہش کرنا۔
 ظہور۔ وضاحت۔ کھولنا۔
استکمال - (اس - تنک - مال) (ع - ا - مذ) تکمیل پا ہونا۔ کمال پر پہنچنا۔
استلام - (ع - مذ) وصول کرنا (۲) پیچ کرنا یا تھما لینا سے چومنا (۳) اصطلاحاً خانہ کعبہ کا طواف کرتے وقت حجر اسود کو بوسہ دینا۔
استلزام - (اس - تل - زام) (ع - ا - مذ) لازم کرنا۔ ضروری بنانا۔
استماع - (اس - تن - ماع) (ع - ا - مذ) غور سے سنتنا۔
استمالت - (اس - تن - مات) (ع - ا - مذ) دلجوئی کرنا۔ خوشامد کرنا۔
 قائل کرنا۔
استمداد - (اس - تنم - داد) (ع - ا - مذ) مدد چاہنا۔ امداد طلب کرنا۔
استمرار - (اس - تنم - رار) (ع - ا - مذ) ہمیشہ رہنا۔ ہمیشگی۔ دوام۔
استمراری - (اس - تنم - راری) (ع - صفت) دوامی۔ ہمیشہ کے لیے۔
 استمراری بندوبست۔ بندوبست دوامی۔ ہمیشہ کا بندوبست۔
استمراری پٹا۔ ایسا پٹا جو ہمیشہ کے لیے دیا جائے۔
استمراج - (اس - تنم - راج) (ع - ا - مذ) (۱) مزاج پوچھنا (۲) مرضی پوچھنا۔
 رکنے دریافت کرنا۔ عندیہ لینا۔
استمنا یا **لیند** - (ع - مذ) مشت زنی۔ جلق۔ ہاتھ سے منی خارج کرنا۔
استناد - (اس - تن - ناد) (ع - ا - مذ) سند میں پیش کرنا۔ مستند لانا۔
 جمع : استنادات
استنباط - (اس - تنم - باط) (ع - ا - مذ) نکالنا۔ چھننا۔ نتیجہ اخذ کرنا۔ چھانٹنا۔
 جمع : استنباطات۔
استنبول - (ت - مذ) اسلام پول کا بیکار۔ ترکی کا مشہور شہر۔ قسطنطنیہ۔
 استانبول۔
استنبجا - (اس - تن - جا) (ع - ا - مذ) پیشاب پاخانے کے بعد نجاست سے
 ہٹنے آب کو پاک کرنا۔ طہارت۔ آب دست لینا۔ ڈھیلنا لینا۔
استنجا لڑنا۔ تادورہ ملنا۔ موافقت اور دوستی ہو جانا۔

استنحی کا ڈھیلنا۔ (۱) وہ ڈھیلنا جس سے استنجا سکھانے میں (۲) کھٹا
 ناکارہ۔ کم قدر۔
استواء - (اس - تن - وا) (ع - ا - مذ) (۱) برابری۔ ہمواری۔ برابر ہونا یکساں ہونا۔
 (۲) جغرافیہ) وہ فرضی خط جو قطبوں کے درمیان برابر فاصلے پر مشرقاً مغرباً
 کھینچا ہوا مانا گیا ہے اور کہہ ارض کو شمالاً جنوباً دو برابر حصوں میں تقسیم کرتا ہے
 جن ٹکروں سے یہ خط گزرتا ہے وہاں سورج کی شعاعیں میڈی ٹرینی ہیں
 جن کے باعث وہاں گرمی زیادہ ہوتی ہے اور بارش بھی زیادہ ہوتی ہے۔
استواء - (اس - تن - وا) (ع - ا - مذ) (۱) برابری۔ ہمواری۔ برابر ہونا یکساں ہونا۔
استواء (اس - تن - وا) (ع - ا - مذ) (۱) برابری۔ ہمواری۔ برابر ہونا یکساں ہونا۔
استوائی - (اس - تن - وای) (ع - صفت) خط استواء سے منسوب۔ خط
 استواء کے علاقے کا۔
استھاپتہ - (اس - تنھا - پتہ) (اس - تنھا - پتہ) (۱) (۱) مندر میں
 مورتی رکھنا (۲) قائم کرنا۔ نصب کرنا۔ لگانا۔
استھاپین - (اس - تنھا - پین) (۱) لگانے والا۔ قائم کرنے یا نصب کرنے کا
 فعل تفضیل۔ تقرر۔
استھاپین کرنا۔ قائم کرنا۔ نصب کرنا۔ لگانا۔
استھان - (اس - تنھا - ن) (۱) جگہ۔ مقام۔ مکان۔ (۲) مندر۔ مزار۔ آستانہ۔
استھرا - (اس - تنہ - را) (ع - ا - مذ) (۱) پستنی خدانہ ٹھٹھوں۔ مذاق کرنا۔ ہنسی اڑانا۔
استئصال - (اس - تنہ - لال) (ع - ا - مذ) (۱) پیمانہ کش کے وقت پیچے کی آواز جس کے
 ظاہر اور ثابت ہونے سے وراثت پر اثر پڑتا ہے (۲) نیا چاند
 دیکھنا۔ نیا چاند نکلنا۔
استیصال - (اس - تنی - صال) (ع - ا - مذ) (۱) بیخ کنی۔ جڑ سے اکھڑانا۔
استیعاب - (اس - تنی - عاب) (ع - ا - مذ) (۱) سماری چیز لینا۔ کسی کتاب یا مضمون
 وغیرہ کو شروع سے آخر تک پڑھنا۔ کل تمام۔
استیلا - (اس - تنی - لا) (ع - ا - مذ) (۱) غلبہ۔ غالب ہونا (۲) قابو میں رکھنا۔
اسٹابری (Strawberry) (اس - ٹاب - ری) (۱) ٹنگ - [مش]۔
 ایک قسم کا میوہ دار درخت اور اس کا پھل جو ہمدانہ سے مشابہ ہوتا ہے۔
اسٹار (Star) (اس - ٹار) (۱) ٹنگ - [مش]۔ (۲) ستارہ۔ کوکب (۳) ستارے
 جیسی کوئی شے (مثلاً تمذنیو) (۳) سب سے بڑھیا اور ممتاز ایجنٹ۔
اسٹارٹ (Start) (اس - ٹارٹ) (۱) ٹنگ - [مش]۔ (۲) ابتداء۔ آغاز
 (کام یا دوڑ) (۲) روانی۔
اسٹاف - (اس - ٹاف) (۱) ٹنگ - [مش]۔ (۲) عملہ۔ محکمہ
 کے ملازمین (۲) ٹونڈا۔ لاقہی۔
اسٹاک (Stock) (اس - ٹاک) (۱) ٹنگ - [مش]۔ (۲) ذخیرہ۔ مال۔ سامان۔
 (تجارت اور پیشے وغیرہ کا) (۲) کسی کمپنی کا مندرکہ سرمایہ (۲) منسک
اسٹاک ایکس چینج (Stock Exchange) (اس - ٹاک - ایکس - چینج) وہ مقام جہاں
 منسکات کی خرید و فروخت ہوتی ہے۔
اسٹاک ٹیکنگ (Stock Taking) (اس - ٹاک - ٹیکنگ) (۱) ٹنگ - [مش]۔
اسٹاکسٹ (Stockist) (اس - ٹاک - سٹ) (۱) ٹنگ - [مش]۔
 خنوک فروش (کسی خاص مال کا)

ایسٹیشنری - (Stationery) (اسٹیشن - ن. ری) [انگ - ۱ - مذ]
 سامان تحریر کاغذ قلم و دوات وغیرہ۔
 اسٹیل - (Steel) (اسٹیل) [انگ - ۱ - مذ] اسپات - فولاد۔
 اسٹیٹیم (Steam) (اسٹیم) [انگ - ۱ - مذ] بھاپ ڈھان۔
 اسٹیٹیم اینجن (Steam Engine) [انگ - ۱ - مذ] دھانی کشتی یا
 جھوٹا جہاز۔

ایسٹیمٹ - (Estimate) (اس - ٹی - میٹ) [انگ - ۱ - مذ]
 (۱) تخمینہ تخمینہ مقدار - اندازہ - جانچ۔
 اسٹینڈ - (Stand) (اس - ٹینڈ) [انگ - ۱ - مذ] (۱) منہام محل - جگہ۔
 (۲) میز - چوکے ٹکڑے (۳) گاڑیوں کا ڈاڑھا۔
 اسٹینسل - (Stencil) (اسٹینسل - سل) [انگ - ۱ - مذ] دھاتی
 پتی سے تختی میں کٹ کر حروف یا نقش وغیرہ بنائے جاتے ہیں اور اس کے
 ذریعے کسی سطح پر نقاشی کی جاتی ہے۔ نقش ساز تختی۔

اسٹیٹوگراف - (Stenographer) (اسٹے - نوگ - رافر)
 [انگ - ۱ - مذ] مختصر نویس۔
 اسٹیٹوگرافی - (Stenography) (اسٹے - نوگ - رانی)
 [انگ - ۱ - مذ] مختصر نویسی۔

اسحاق - (اس - حاق) [انگ - ۱ - مذ] ایک پیغمبر کا نام جو حضرت ابراہیم علیہ السلام
 کے بیٹے تھے۔

اسجیا - (اس - جیا) [انگ - ۱ - مذ] جمع - قیاض لوگ۔
 آسند - (آسند) [انگ - ۱ - مذ] (۱) شہر (۲) ایک آسمانی بُرج کا نام۔
 آسند اللہ - خدا کا شہر - امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا لقب۔ آسند کے
 مشہور شاعر مرزا غالب کا اصل نام۔

آسرا - (آسرا) [انگ - ۱ - مذ] (۱) ہمسرہ کی جمع (۲) بھیدہ پوشیدہ باتیں۔
 آسراف - (اس - راف) [انگ - ۱ - مذ] فضول خرچی۔ بے جا خرچ۔
 آسرافیل - (اس - رافیل) [انگ - ۱ - مذ] ایک مغرب فرشتے کا نام جس کو قیامت
 کے دن صور بھرنے کی خدمت سپرد کی گئی ہے۔

آسرائیل - (اس - رائیل) [انگ - ۱ - مذ] (۱) مانت کو آنے والا (۲) حضرت عیسیٰ
 علیہ السلام کا دوسرا نام کیونکہ آپ رات کو پیدا ہوئے تھے۔
 آسرائیلی - (اس - رائیلی) [انگ - ۱ - مذ] اسرائیل سے منسوب حضرت آسرائیل
 کی اولاد - فرقہ بنی اسرائیل - یہودی۔

اسسٹنٹ - (Assistant) (آسٹنٹ) [انگ - ۱ - مذ] مددگار
 معاون۔

اسٹبل - (اسٹبل) [انگ - ۱ - مذ] دیکھے اسٹبل۔
 اسٹراب - (اسٹراب) [انگ - ۱ - مذ] دیکھے اسٹراب۔
 اسٹوانہ - (اسٹوانہ) [انگ - ۱ - مذ] ستون - تم - کھبا - لاٹھ - پایہ۔
 اسٹوٹوروس - (اسٹوٹوروس) [انگ - ۱ - مذ] ایک دوکان کا نام۔
 اسٹور - (اسٹور) [انگ - ۱ - مذ] قصہ - کہانی - افسانہ - بات۔
 اشعد - (آش - عد) [انگ - ۱ - مذ] [انگ - ۱ - مذ] نہایت خوش نصیب - بہت مبارک۔

اشال - (Stall) (اسٹال) [انگ - ۱ - مذ] (۱) سیٹلے یا بازاری
 عارضی دوکان (۲) سودا بیچنے کی میز (۳) قہر میں سامنے کی نشستیں۔
 سینما میں سب سے پھلی نشستیں۔

اشامپ - (Stamp) (اسٹامپ) [انگ - ۱ - مذ] ہر چھاپ
 کا نمونہ۔ (۱) ہر چھاپ (۲) دستاویز لکھنے کا سرکاری کارغذ
 جس پر سرکہ قیمت چھاپا ہوتا ہے۔

اشائل - (Style) (اسٹائل) [انگ - ۱ - مذ] (۱) طرز - اسلوب
 (۲) اسلوب بیان طرز ادا (۳) وضع - انداز - رسم (۴) شکل ساخت نمونہ۔
 اسٹپل - (Stipple) (اسٹپل) [انگ - ۱ - مذ] لفظوں سے
 تصویر بنانا - لفظوں کی نقاشی یا کندہ کاری۔

اسٹرلنگ - (Sterling) (اسٹرنگ) [انگ - ۱ - مذ] برطانوی
 کرنسی (سکہ)

اسٹریٹ - (Street) (اسٹریٹ) [انگ - ۱ - مذ] گھر بچے کی
 سڑک - گلی - سڑک۔

اسٹنٹ - (Stunt) (اسٹنٹ) [انگ - ۱ - مذ] کمال کارنمایا
 وہ کام جس سے اپنا کام دکھانا مقصود ہو۔

اسٹو - (Stew) (اسٹو) [انگ - ۱ - مذ] گوشت - آلو اور پیاز وغیرہ
 کا ذمہ پخت سالن۔

اسٹوو - (Stove) (اسٹوو) [انگ - ۱ - مذ] ولایتی چولہا۔
 اسٹوڈینٹ - (Student) (اسٹوڈینٹ) [انگ - ۱ - مذ]
 طالب علم۔

اسٹوڈیو - (Studio) (اسٹوڈیو) [انگ - ۱ - مذ] (۱) فوٹوگرافی
 کا محو یا دکان (۲) فلم کپنی کا کارخانہ (۳) ریڈیو اسٹیشن کا کوئی کرد
 جہاں سے تقریریں - گلے وغیرہ نشر کیے جاتے ہیں۔

اسٹور - (Store) (اسٹور) [انگ - ۱ - مذ] ذخیرہ (۲) بڑی
 دکان جس میں ہر قسم کی چیزیں ملتی ہیں۔

اسٹوری - (Story) (اسٹوری) [انگ - ۱ - مذ] قصہ کہانی
 افسانہ - داستان - حکایت۔

اسٹیٹ - (State) (اسٹیٹ) [انگ - ۱ - مذ] ریاست
 ملک - سلطنت۔

اسٹیج - (Stage) (اسٹیج) [انگ - ۱ - مذ] چوترا نمایاں جگہ
 ممتاز جگہ - (۲) تماش گاہ کا وہ چوترا جہاں ڈرامہ کھیلا جاتا ہے (۳)
 مرحلہ - دور - نوبت۔

اسٹیچو - (Statue) (اسٹیچو) [انگ - ۱ - مذ] مجسمہ - عورت۔
 اسٹیڈیم - (Stadium) (اسٹیڈیم) [انگ - ۱ - مذ] ورزشی
 کھیلوں کا میدان۔

اسٹیشن - (Station) (اسٹیشن) [انگ - ۱ - مذ] مستقر مقام
 قیام گاہ - بھرنے کی جگہ ٹھکانا - چوکی - اٹھا۔

اسٹیشنر - (Stationer) (اسٹیشنر) [انگ - ۱ - مذ]
 تاجر سامان تحریر - قلم - کاغذ - دوات وغیرہ بیچنے والا۔

اسفانج - (اس - فنا - ناچ) (ف - امش) [پالک -

اسفل - (اس - نفل) (ع - صفت) نہایت نیچا - انتہا کا ذیل - ادنی - نیچ کیل
جمع :- اسفلین - اسافل -

اسفل السافلین - دوزخ کا سب سے نیچا یعنی ساتواں طبقہ - ہادیہ -
اسفنج - (اس - ننج) (ع - ا - مذ) [اگر مردہ - ایک سمندری مخلوق - اس کی بناؤ
ایسی جوت دار ہوتی ہے کہ اس میں پانی جذب ہو جاتا ہے اور پورے پر
فرا خشک ہو جاتا ہے -

اسفند - اسفندار - (اس - نند - اس - فن - وار) (ف - ا - مذ) [نارسی کا
ساتواں ہیبت -

اسفنداریہ - (اس - فن - و - بار) (ف - ا - مذ) [۱) قدرت حق - لطف خدا (۲)
ایران کے ایک بادشاہ کا نام -

استفاط - (اس - سفاط) (ع - ا - مذ) [اگر انا - حمل کرنا -

استفاط - حمل کا ضائع ہونا حمل کا گرنا -

استفام - (اس - نام) (ع - ا - مذ) [سفر کی جمع عیوب - برائیاں - نقصان
استفریط - (اس - نر - بوط) (ع - ا - مذ) [ایک مرض جو فساد خون سے پیدا
ہوتا ہے - نسا خون -

استف - (اس - نف) (ع - ا - مذ) [لاٹ پادری - پادریوں کا سردار -
لارڈ بشپ -

اسکاٹ - (Scot) (اس - کاٹ) [انگ - ا - مذ] اسکچ - اسکاٹ
بینڈ کا باشندہ -

اسکاٹ لینڈ یارڈ - (Scotland Yard) لندن کی خفیہ پولیس -

خفیہ پولیس کا صدر مقام -
اسکاٹچ - (Scotch) (اس - کچ) [انگ - ا - صفت] [اسکاٹ لینڈ
یادوں کے باشندوں کے متعلق (۲) [مٹ] اسکاٹ لینڈ کی انگریزی
بولی (۳) [مذکر] اسکاٹ لینڈ کا باشندہ -

اسکالر - (Scholar) (اس - کار - ل) [انگ - ا - مذ] [مٹ] (۱)
متعلم - تلمیذ - طالب علم (۲) عالم - ناضل - ادیب -

اسکاؤٹ - (Scout) (اس - کاؤ - ٹ) [انگ - ا - مذ] [۱) ایک
عالمگیر جماعت جس کا مقصد لڑکوں میں خدمت خلق کا جذبہ پیدا کرنا ہے - اس
جماعت کے رکن لڑکے ایک خاص وردی پہنتے ہیں (۲) وہ سپاہی
جو دشمن کی سرگرمیوں کے بارے میں معلومات تمبا کرنے کی خاطر پیچھے
جاتے ہیں -

اسکرپٹ - (Script) (اس - ک - رپٹ) [انگ - ا - مذ] [تحریر مسودہ
اسکرٹ - (Skirt) (اس - کرٹ) [انگ - ا - مذ] [لنگا - سیا یا
(یورپی عورتوں کا)
اسکرو - (Screw) [انگ - مذ] [بوتل کا کارک کھولنے کا پیچ -
پیچ جو لکڑی وغیرہ میں کسا جاتا ہے -

اسکرین - (Screen) (اس - کریں) [انگ - ا - مذ] [۱) پردہ
(۲) تھی - آڈ - اوٹ -

اسکندر - (اس - کن - در) (ع - ا - مذ) [یونان کے مشہور بادشاہ کا نام

اسکندریہ - بحیرہ روم کے کنارے مصر کی مشہور بندرگاہ -
اسکوائر - (Esquire) (اس - ک - و - ا - بر) [انگ - ا - مذ] [صا -
عوام شرف کے نام کے ساتھ آتا ہے -

اسکور - (Score) (اس - کور) [انگ - ا - مذ] [۱) وہ نمبر جو کوئی
کھلاڑی کسی کھیل میں حاصل کرے (۲) بیسی - کوڑی -

اسکول - (School) (اس - کول) [انگ - ا - مذ] [مدرسہ - مکتب -
پانچھ شالا -

اسکول ٹیچر - (School Teacher) اُستاد یا اُستانی معلم یا معلمہ
اسکول ماسٹر - (School Master) اُستاد معلم

اسکول ماسٹرس - (School Mistress) اُستانی معلمہ
اسکویتش - (Squash) (اس - ک - و - ا - بر) [انگ - ا - مذ] [۱) حق شرت
(۲) ایک کھیل جو ریکٹ اور نرم گیند سے مخصوص کورٹ میں کھیلا جاتا ہے -

اسکیچ - (Sketch) (اس - کچ) [انگ - ا - مذ] [۱) تصویر کا خاکہ
(۲) ڈھانچہ - خاکہ (۳) خلاصہ - مسودہ - مختصر مضمون -

اسکیم - (Scheme) (اس - کیم) [انگ - ا - مذ] [۱) تجویز - ترکیب
منصوبہ (۲) چال - خفیہ ریشہ - دوانی - سازش -

اسکیمنڈل - (Scandal) (اس - کین - ڈل) [رسوائی - تمہت - نصیبت
بنیادی شرمناک واقعہ -

اسگند - اسگندھ - (ہ - مذ) [آشوب معنی گھوٹا - گند معنی بو] ایک سفید جڑ
جس سے گھوڑے کے پینے کی بو آتی ہے اور دو اداں میں استعمال ہوتی ہے -

اسلاف - (اس - لاف) (ع - ا - مذ) [سلف کی جمع - اگلے وقتوں کے لوگ -
بزرگ - پُرکھے -

اسلام - (اس - لام) (ع - ا - مذ) [۱) گردن جھکانا - اطاعت کرنا (۲) مسلمانوں کا دین -
اسلام قبول کرنا - اسلام لانا - دین محمدی میں آنا -

اسلامی - (اس - لای) [ع - صفت] [اسلام کا - اسلام سے متعلق (مذکر) مسلم - مسلمان -
اسلحہ - (اس - ل - ح) (ع - ا - مذ) [سلاح کی جمع - لڑائی کے ہتھیار - آلات جنگ -
اسلحہ خانہ - ہتھیار خانہ - سلاح خانہ -

اسٹلم - (اس - لم) [ع - صفت] [۱) نہایت محفوظ جگہ (۲) مارگدہ -
اسٹولب - (اس - لب) (ع - ا - مذ) [طرز بقیہ - طرز - روش - جمع - اتالیب
اسم - (ع - ا - مذ) نام - وہ کلمہ جس سے کسی شخص - جانور - جگہ یا چیز کو پہچانا جائے
جمع : اسماء

اسم آلہ - وہ اسم جو اور یا ہتھیار کے معنی دے (قلم - جاقو - بندوق وغیرہ)
اسم استفہام - وہ اسم جس کے ذریعہ کوئی بات پوچھی جاتی ہے کیا - کون کہاں ؟
اسم اشارہ - وہ اسم جس سے کسی کی طرف اشارہ کیا جائے جیسے وہ - یہ - ان
اسم اعظم - خداوند تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک بزرگ تر نام -
اسم باطنی - جیسا نام ویسا کن - وہ شخص جس کا نام اس کے اوصاف کو ٹھیک
ٹھیک ثابت کرے -

اسم نصغیر - وہ اسم جس میں چٹھانی کے معنی پائے جائیں جیسے پھارسی ڈوبیا -
کھول لاکھولید - بچی وغیرہ -

اسم جامد - وہ اسم جو خود کسی سے بنا ہوں اس سے کچھ نہ جیسے کھڑا - کو بھی

اسم تکرار - وہ اسم جو بار بار تکرار ہوتا ہے جیسے کھڑا - کو بھی

اسم تکرار - وہ اسم جو بار بار تکرار ہوتا ہے جیسے کھڑا - کو بھی

اسم تکرار - وہ اسم جو بار بار تکرار ہوتا ہے جیسے کھڑا - کو بھی

اسم تکرار - وہ اسم جو بار بار تکرار ہوتا ہے جیسے کھڑا - کو بھی

اسماعیلیہ - اسمعیلیہ - حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے کا نام جو حضرت
باجرہ کے لہن سے تھے۔ لقب ذبیح اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کے جدِ امجد۔

اسماعیلی - (اس۔ ما۔ عی۔ لی) (ع۔ صفت۔ و۔ و۔ ند) (۱) امام جعفر صادق کے فرزند
حضرت اسمعیل کے فرزند سے متعلق (۲) امام اسمعیل کا بیرو۔

اسماعیلیہ - اسمعیلیہ - (اس۔ ما۔ عی۔ لی۔ یے) (ع۔ ا۔ سن) اہل تشیع کے فرقہ امام
کا ایک گروہ جو امام جعفر صادق کے چھوٹے صاحبزادے حضرت موسیٰ کاظم
کے سجدے آپ کے بڑے صاحبزادے حضرت اسماعیل کو آپ کا چاشنی
مانتا ہے (صفت) حضرت امام اسمعیل سے متعلق۔

آسمبلی - (Assembly) (آ۔ سمب۔ لی) (انگ۔ ۱۔ ند) جرگہ۔ مجلس
(خصوصاً) (مجلس شوریٰ یا مجلس قانون ساز)

اسمگلر (Smuggler) (اس۔ مگل۔ ل۔ نر) (انگ۔ ۱۔ ند) خلافِ قانون
درآمد یا برآمد کرنے والا۔

اسمگل کرنا - (Smuggle) (اس۔ مگل۔ کرنا) (انگ۔ ۱۔ ند) خلافِ قانون
درآمد یا برآمد کرنا۔ چپکلی ادا کیے بغیر مال لے جانا۔

اسمگلنگ - (Smuggling) (اس۔ مگل۔ نگ) (انگ۔ ۱۔ عدت)
خلافِ قانون درآمد یا برآمد۔

آسمی - (اس۔ می) (ع۔ صفت) (۱) اسم کے متعلق۔ نام کے متعلق (۲) اسم دار
نام بنام۔

آسوار - (اس۔ وار) (ع۔ وار) (۱) اسم کی جمع۔ سواروں۔ دشمنوں پر مشتمل
آسوار - (اس۔ وار) (ف۔ وار) (۱) اسم کی جمع۔ سواروں پر چڑھنے والا۔ جمع، اسواروں۔

آسوارمی - (اس۔ وار۔ می) (ع۔ وار۔ می) (۱) اسم کی جمع۔ سواروں پر
آسوارنشی - (اس۔ وار۔ شی) (ع۔ وار۔ شی) (۱) اسم کی جمع۔ زمین ناپنے کا پیمانہ جو کچھ پانسی کا پیمانہ
جستہ ہوتا ہے۔

آسوج - (آ۔ سوج) (ع۔ صفت) (۱) اسم کی جمع۔ سواروں کا پیمانہ۔ آسن۔ کنوارا کا پیمانہ۔
آسود - (آ۔ س۔ ود) (ع۔ صفت) (۱) اسم کی جمع۔ سیاہ کالا سیاہ رنگ کا۔

آسود و آسود - (آ۔ س۔ ود) (ع۔ صفت) (۱) اسم کی جمع۔ سیاہ اور سرخ (۲) اسم کی جمع۔ سیاہ اور سرخ (۳) اسم کی جمع۔ سیاہ اور سرخ
آسودہ - (آ۔ س۔ ود) (ع۔ صفت) (۱) اسم کی جمع۔ سیاہ اور سرخ (۲) اسم کی جمع۔ سیاہ اور سرخ (۳) اسم کی جمع۔ سیاہ اور سرخ

آسودہ حسنہ - بہت اچھا نمونہ۔ نیک مثال۔
آسودہ - (آ۔ س۔ ود) (ع۔ صفت) (۱) اسم کی جمع۔ سیاہ اور سرخ (۲) اسم کی جمع۔ سیاہ اور سرخ (۳) اسم کی جمع۔ سیاہ اور سرخ

آسودہ - (آ۔ س۔ ود) (ع۔ صفت) (۱) اسم کی جمع۔ سیاہ اور سرخ (۲) اسم کی جمع۔ سیاہ اور سرخ (۳) اسم کی جمع۔ سیاہ اور سرخ
آسودہ - (آ۔ س۔ ود) (ع۔ صفت) (۱) اسم کی جمع۔ سیاہ اور سرخ (۲) اسم کی جمع۔ سیاہ اور سرخ (۳) اسم کی جمع۔ سیاہ اور سرخ

آسودہ - (آ۔ س۔ ود) (ع۔ صفت) (۱) اسم کی جمع۔ سیاہ اور سرخ (۲) اسم کی جمع۔ سیاہ اور سرخ (۳) اسم کی جمع۔ سیاہ اور سرخ
آسودہ - (آ۔ س۔ ود) (ع۔ صفت) (۱) اسم کی جمع۔ سیاہ اور سرخ (۲) اسم کی جمع۔ سیاہ اور سرخ (۳) اسم کی جمع۔ سیاہ اور سرخ

آسودہ - (آ۔ س۔ ود) (ع۔ صفت) (۱) اسم کی جمع۔ سیاہ اور سرخ (۲) اسم کی جمع۔ سیاہ اور سرخ (۳) اسم کی جمع۔ سیاہ اور سرخ
آسودہ - (آ۔ س۔ ود) (ع۔ صفت) (۱) اسم کی جمع۔ سیاہ اور سرخ (۲) اسم کی جمع۔ سیاہ اور سرخ (۳) اسم کی جمع۔ سیاہ اور سرخ

آسودہ - (آ۔ س۔ ود) (ع۔ صفت) (۱) اسم کی جمع۔ سیاہ اور سرخ (۲) اسم کی جمع۔ سیاہ اور سرخ (۳) اسم کی جمع۔ سیاہ اور سرخ
آسودہ - (آ۔ س۔ ود) (ع۔ صفت) (۱) اسم کی جمع۔ سیاہ اور سرخ (۲) اسم کی جمع۔ سیاہ اور سرخ (۳) اسم کی جمع۔ سیاہ اور سرخ

آسودہ - (آ۔ س۔ ود) (ع۔ صفت) (۱) اسم کی جمع۔ سیاہ اور سرخ (۲) اسم کی جمع۔ سیاہ اور سرخ (۳) اسم کی جمع۔ سیاہ اور سرخ
آسودہ - (آ۔ س۔ ود) (ع۔ صفت) (۱) اسم کی جمع۔ سیاہ اور سرخ (۲) اسم کی جمع۔ سیاہ اور سرخ (۳) اسم کی جمع۔ سیاہ اور سرخ

اسم جلالی - اللہ تعالیٰ کا وہ نام جس میں شانِ جلالی کا اظہار ہو جیسے قہار و جبار۔
اسم جہالی - اللہ تعالیٰ کا وہ نام جس میں شانِ رحمت کا اظہار ہو جیسے رحمن۔ رحیم۔

اسم جنس - وہ اسم جو کسی پوری جنس کے لیے بولا جائے جیسے برن۔ ناخن۔
اسم حالیہ - وہ اسم جس سے ناعل یا مفعول کی حالت معلوم ہو جیسے دوڑنا۔ سڑنا۔ مارتا ہوا۔

اسم ذات - وہ اسم جس سے ایک چیز کی حقیقت کوئی چیزوں سے الگ سمجھی جائے
اور اس سے کوئی وصف مندرم نہ ہو جیسے ادب۔ باطنی گھوڑا۔

اسم صفت - وہ اسم جس سے کسی چیز یا شخص کی خصوصیت خوبی یا برائی ظاہر ہو
جیسے سچا۔ گھوڑا۔ کالا۔ گورا۔

اسم ضمیر - وہ اسم جو بجائے نام کے استعمال کیا جائے جیسے ہم۔ تم۔ وہ۔
اسم ظرف - وہ اسم جس میں زمانہ یا جگہ کے معنی پائے جائیں۔ اگر لڑنے کے معنی

ہوں تو ظرفِ زمانہ اور اگر جگہ کے معنی ہوں تو ظرفِ مکان کہیں گے۔
(صبح۔ شام۔ دن۔ رات۔ گھر۔ مدرسہ وغیرہ)

اسم عدد - وہ اسم جس سے تعداد یا گنتی ظاہر ہو جیسے دس بارہ۔
اسم علم - وہ اسم جو کسی خاص شخص یا چیز کا نام ہو۔ (صدیق۔ یاروں۔

رادے۔ جانور وغیرہ)
اسم ناعل - وہ اسم جو مصدر سے بنے اور ناعل کے معنی پائے جیسے آنے والا۔ جانے والا۔

اسم فرضی - فرض کیا ہوا نام۔ کسی کوئی نام کے کردار کا نام۔
اسم معترضہ - وہ اسم مشتق جو کسی کام کی اجرت کے معنی دے (وصلاتی

کھائی۔ رنگائی وغیرہ)
اسم معرفہ - وہ اسم جو کسی خاص شخص۔ مقام یا چیز کا نام ہو جیسے حامد۔ لاہور

تخت طاؤس۔
اسم مفعول - وہ اسم جو مصدر سے بنے اور مفعول کے معنی دے جیسے
گھرا ہوا۔ مرا ہوا۔

اسم مکتبہ - وہ اسم جس میں برائی کے معنی پائے جائیں (پکڑی سے پکڑ چھڑی
سے چھتر۔ بات سے سنکر)

اسم موصول - وہ اسم نا تمام کہ جب تک اس کے ساتھ ایک جملہ نہ ذکر نہ ہو۔
کسی جملے کا جزو نام بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا یعنی ایک لفظ ناعل ہو سکتا ہے

نہ مفعول نہ مبنی نہ خبر جیسے جو جس۔ اس کے بعد جو جملہ آتا ہے اسے صلہ
کہتے ہیں جیسے جو جہی ہیں اختیار بیش و کم رکھتے نہیں۔

اسم نکرہ - وہ اسم جو ایک ہی قسم کی تمام چیزوں پر بولا جائے جیسے آدمی
آدم۔ کتاب۔

اسم نوسمی - (۱) ناموں کی فرست (۲) وہ کا فذ جو نسبت کے رتھے سے پہلے
لکھا جاتا ہے (۳) جہش میں درج کرنا (۴) نام درج کرنے کا جہش۔

اسم نویسی گویا - (۱) گویا ہوں کی فرست (۲) گویا ہوں کو حاضر کرنے کی درخواست۔
اسم دار - نام بنام۔ گوشوارہ میں ناموں کے مطابق اندراج۔

آسما - (اس۔ ما) (ع۔ ا۔ ند) اسم کی جمع۔ بہت سے نام۔
اسما آلرجال - (اس۔ ما۔ ا۔ ر۔ ج۔ ل) (ع۔ ا۔ ند) (۱) لوگوں کے نام (۲)

اصطلاح معنی میں احادیث کے راویوں کے نام (۳) علم حدیث کا مشابہ
جس میں راویان حدیث کے نام اور حالات سے بحث کی جاتی ہے۔

اسم لکنہ - (ع۔ صفت) اچھے نام۔ اللہ تعالیٰ کے ننانوے نام۔

(۲) [۱- مذ] اشتراکیت کا پیر و سوشلسٹ (Socialist)

اشتراکیت - (اش - ت - دا - کی - یت) [ع - ۱ - مٹ] (۱) اجتماعیت (۲) سماجی - حرکت (۳) ایک اعتدال پسند فلسفہ یا نظریہ حیات جس کے مطابق ذرائع پیداوار پر عوام کی مشترکہ ملکیت ہونی چاہیے - (انگس)

(Communism)

اشتعال - (اش - ت - عال) [ع - ۱ - مذ] (۱) شعلہ اٹھانا - آگ لگانا بھڑکانا - (۲) کرنا بہت جوش غصہ -

اشتعال دینا - دلانا - بھڑکانا - جوش دلانا - غصہ دلانا -

اشتعال طبع - طبیعت میں جوش اور غصے کی بھڑک -

اشتعال لک - (اش - ت - عا - لک) [ف - ۱ - مٹ] (۱) نچھا سا شعلہ چمکنا (۲) جوش غصہ (۳) تحریک - انگسٹ (۴) چراغ کی جلی اگلنے کا ننگا -

اشتعال لک دینا - بھڑکانا - آگ لگانا جوش دلانا -

اشتغال - (اش - ت - فال) [ع - ۱ - مذ] مشغول ہونا - مصروف ہونا - مصروفیت -

اشتقاق - (اش - ت - فاق) [ع - ۱ - مذ] (۱) کسی شے کو پیدا کر کے کچھ نکلانا (۲) اصطلاح - علم صرف میں ایک کلمے سے دوسرا کلمہ بنانا -

اشتعال - (اش - ت - مال) [ع - ۱ - مذ] شامل کرنا یا ملانا - جمع : اشتکالات اشتعال اراضی - زمین کے بکھرے ہوئے ٹکڑوں کو یکجا کرنا تاکہ کاشت میں آسانی ہو -

اشتمالی - (اش - ت - مالی) [ع - ۱ - مٹ] اشتہائیت سے منسوب (مذ) اشتہائیت کا پیر و سوشلسٹ -

اشتمالییت - (اش - ت - لی - بیت) [ع - ۱ - مٹ] (۱) مساوی ہونا برابر ہونا (۲) ایک انقلابی نظریہ حیات جو محلی ملکیت اور جسمانی امتیاز کے غلات ہے - اس کی رو سے ملک کے تمام وسائل پیداوار پر برابر (عوام) کا قبضہ ہونا چاہیے - اور ان میں سے ہر فرد کو اس کی ضرورت کے مطابق حصہ دیا جائے سوشلسٹزم (Communism)

اشتمالی - (اش - ت - لی - بیت) [ع - ۱ - مٹ] (۱) مساوی ہونا برابر ہونا (۲) ایک انقلابی نظریہ حیات جو محلی ملکیت اور جسمانی امتیاز کے غلات ہے - اس کی رو سے ملک کے تمام وسائل پیداوار پر برابر (عوام) کا قبضہ ہونا چاہیے - اور ان میں سے ہر فرد کو اس کی ضرورت کے مطابق حصہ دیا جائے سوشلسٹزم (Communism)

اشتمالی - (اش - ت - لی - بیت) [ع - ۱ - مٹ] (۱) مساوی ہونا برابر ہونا (۲) ایک انقلابی نظریہ حیات جو محلی ملکیت اور جسمانی امتیاز کے غلات ہے - اس کی رو سے ملک کے تمام وسائل پیداوار پر برابر (عوام) کا قبضہ ہونا چاہیے - اور ان میں سے ہر فرد کو اس کی ضرورت کے مطابق حصہ دیا جائے سوشلسٹزم (Communism)

اشتمالی - (اش - ت - لی - بیت) [ع - ۱ - مٹ] (۱) مساوی ہونا برابر ہونا (۲) ایک انقلابی نظریہ حیات جو محلی ملکیت اور جسمانی امتیاز کے غلات ہے - اس کی رو سے ملک کے تمام وسائل پیداوار پر برابر (عوام) کا قبضہ ہونا چاہیے - اور ان میں سے ہر فرد کو اس کی ضرورت کے مطابق حصہ دیا جائے سوشلسٹزم (Communism)

اشتمالی - (اش - ت - لی - بیت) [ع - ۱ - مٹ] (۱) مساوی ہونا برابر ہونا (۲) ایک انقلابی نظریہ حیات جو محلی ملکیت اور جسمانی امتیاز کے غلات ہے - اس کی رو سے ملک کے تمام وسائل پیداوار پر برابر (عوام) کا قبضہ ہونا چاہیے - اور ان میں سے ہر فرد کو اس کی ضرورت کے مطابق حصہ دیا جائے سوشلسٹزم (Communism)

اشتمالی - (اش - ت - لی - بیت) [ع - ۱ - مٹ] (۱) مساوی ہونا برابر ہونا (۲) ایک انقلابی نظریہ حیات جو محلی ملکیت اور جسمانی امتیاز کے غلات ہے - اس کی رو سے ملک کے تمام وسائل پیداوار پر برابر (عوام) کا قبضہ ہونا چاہیے - اور ان میں سے ہر فرد کو اس کی ضرورت کے مطابق حصہ دیا جائے سوشلسٹزم (Communism)

اشتمالی - (اش - ت - لی - بیت) [ع - ۱ - مٹ] (۱) مساوی ہونا برابر ہونا (۲) ایک انقلابی نظریہ حیات جو محلی ملکیت اور جسمانی امتیاز کے غلات ہے - اس کی رو سے ملک کے تمام وسائل پیداوار پر برابر (عوام) کا قبضہ ہونا چاہیے - اور ان میں سے ہر فرد کو اس کی ضرورت کے مطابق حصہ دیا جائے سوشلسٹزم (Communism)

اشتمالی - (اش - ت - لی - بیت) [ع - ۱ - مٹ] (۱) مساوی ہونا برابر ہونا (۲) ایک انقلابی نظریہ حیات جو محلی ملکیت اور جسمانی امتیاز کے غلات ہے - اس کی رو سے ملک کے تمام وسائل پیداوار پر برابر (عوام) کا قبضہ ہونا چاہیے - اور ان میں سے ہر فرد کو اس کی ضرورت کے مطابق حصہ دیا جائے سوشلسٹزم (Communism)

اشتمالی - (اش - ت - لی - بیت) [ع - ۱ - مٹ] (۱) مساوی ہونا برابر ہونا (۲) ایک انقلابی نظریہ حیات جو محلی ملکیت اور جسمانی امتیاز کے غلات ہے - اس کی رو سے ملک کے تمام وسائل پیداوار پر برابر (عوام) کا قبضہ ہونا چاہیے - اور ان میں سے ہر فرد کو اس کی ضرورت کے مطابق حصہ دیا جائے سوشلسٹزم (Communism)

سننے کے بعد کمیشن جج کو رائے دیتے ہیں - یہ لوگ عوام میں سے مفرد کے جلتے ہیں (۳) بدلیات میں کسی لگانے کے لئے لوگوں کی ملکیت اور جائیداد کا اندازہ کرنے والے حکام -

۱-ش

اش - [ت] اُن -

اشا - (۱-شا) [س - ۱- مٹ] (۱) طلوع صبح صادق کی روشنی صبح پورے پھلنے کا وقت (۲) کام دیو کے بیٹے انیردھ کی بیوی -

اشعارات - (۱-شا - رات) [ع - ۱- مذ] اشارہ کی جمع (۱) مزیں - کائناتے (۲) بولے سینا کی کتاب کا نام -

اشارت - (۱-شا - رت) [ف - ۱- مٹ] ایما - رمز اشارہ (اصل عربی اشارۃ) اشارہ - (۱-شا - زہ) [ع - ۱- مذ] رمز - کتابہ - ایما -

اشاہہ مانا - منشا معلوم کرنا - عندیہ بھانپ جانا -

اشاہہ چلانا - آنکھ سے اشارہ ہونا - رمز دکھانا - ہونا -

اشاہہ قوم - اشارے سے مطلب سمجھنے والا - فریبے سے بات سمجھ جانے والا - اشارہ کرنا - (۱) ایما کرنا - آنکھ بھونوں یا کسی اور عضو کے ذریعے دل کی بات ظاہر کرنا (۲) جملہ یا کتا بیہ کسی بات کو تحریر و تقریر میں ظاہر کرنا (۳) بھڑکانا - بھگانا -

اشاہوں میں ٹورا ہونا - اس طرح اقرار ہونا کہ دوسرا نہ سمجھ سکے -

اشاہے پر چلنا - کسی کے حسب منشا کام کرنا کسی کے ایما پر چلنا -

اشاہے پر لگانا - ایسی تربیت دینا کہ اشارہ پا کر حکم بجالائے -

اشاریہ - (اشا - ر - یہ) [ع - ۱- مذ] کسی کتاب کے مضامین کی تفصیلی فہرست حدود تہجی کے اعتبار سے (کتاب میں کوئی مضمون موضوع یا ناما کے زیادہ مقام پر آئے تو تمام متعلقہ صفحات کے نمبر ایک ہی عنوان کے تحت دے دیئے جاتے ہیں)

اشاعت - (۱-شا - عت) [ع - ۱- مٹ] (۱) شائع کرنا پھیلانا شہرت پانا (۲) جمع ایڈیشن (Edition)

اشاہہ - دیکھیے اشغریہ -

اشباع - (اش - باع) [ع - ۱- مذ] (۱) حرکت کو اس طرح کھینچنا کہ زبرد سے لطف زبرد سے اور پیش سے داؤ کی آواز پیدا ہو جائے (۲) علم عروض میں حویف وخیل کی حرکت کا نام -

اشاہہ - (ع - مذ) شبہ کی جمع شبہوں کی تشکیل صورتیں -

اشاہہ - (ع - مذ) مشابہ ہونا کسی جی مانند ہونا -

اشغابہ - (اش - ت - باہ) [ع - ۱- مذ] (۱) مشابہ ہونا - دو چیزوں کا اس طرح ہم شکل ہونا کہ دھوکا ہو جائے (۲) گمان - شبہ - شک -

اشداد - (اش - ت - داد) [ع - ۱- مذ] شدت - زیادتی -

اشتر - (اش - تر) [ف - ۱- مذ] اُدٹ -

اشترک (اش - ت - راک) [ع - ۱- مذ] شرکت - سماجی جھڑداری -

اشترکی - (اش - ت - سا - کی) [ع - ۱- مٹ] اشتراکیت سے منسوب - اشتراکیت کا حامی (Communist) سوشلزم سے متعلق

اشدھ - (ا. اشدھ) (س صدف) (۱) ناپاک ۲ غلیظ۔

اشتر - (ا. اشتر) (ع صدف) بہت شہر۔

اشترار - (اش - ماد) (ع - ۱) [ع - ۱] شہر کی جمع۔ بڑے لوگ۔ شہراتی لوگ۔

اشرف - (اش - رات) (ع - ۱) [ع - ۱] شریف کی جمع۔ بھلے مانس لوگ (۲)

عالی خاندان۔ عالی نسب۔ ذی تہذیب۔ ذی عزت لوگ (۳) معتدب اور شائستہ لوگ (اُردو میں واحد ہی مستعمل ہے)

اشرف یا دس پڑے کیلئے سر چڑھے۔ [مثلاً] شریف تو اپنی شرافت کی وجہ سے نرمی کرتا ہے اور کیلئے سر چڑھتا ہے۔

اشرف وہ ہے جس کے پاس اشرفی ہے۔ اس زلف میں اشرف مالدار کو ہی سمجھا جاتا ہے۔

اشرفیہ - (اش - رادف - نی) (ع - ۱) [ع - ۱] حکومت امر اجس میں چند مخصوص ادارے بااثر لوگ ہی اقتدار والے کے مالک ہوتے ہیں جو اس کی حکومت۔

اشراق - (اش - راق) (ع - ۱) [ع - ۱] آفتاب طلوع ہونا۔ آفتاب نکلنے کا وقت یا اس وقت کی نماز (۳) محنت۔ روشن ضمیری۔ تصفیہ باطنی۔

اشراقیہ - (اش - راق - نی) (ع - ۱) [ع - ۱] عہدہ کا وہ مہا من گروہ جو تصفیہ قلب اور کشف کے ذریعے شاگردوں کو دُور بیٹھے پوئے تعلیم دیا کرتا ہے۔

اشرف - (اش - ردف) (ع صدف) بہت شریف۔ بزرگ ترین۔

اشرف الاشراف - شریفوں کا شریف۔ نہایت شریف۔

اشرف المخلوقات - (۱) ساری مخلوق سے بزرگ تر (۲) آدمی۔ انسان۔

اشرف الناس - سب سے شریف۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم۔

اشرفی - (اش - رنی) (ف - ۱) [ع - ۱] سونے کا ایک سکہ۔ ہر دینار۔ پونڈر سونے کی (۲) ایک بوٹی کا نام جس کا ٹھول گول اور زرد ہوتا ہے۔

اشرفی بوٹی - اشرفی کی تعداد مستند بوٹیاں جو مخلوق یا دوسری قسم کے پھینٹ کے پڑے پر ہی پتی ہیں (۲) ایک بوٹی کا نام جس کا ٹھول اشرفی کی مانند زرد اور گول ہوتا ہے۔

اشرفیالیہ - کوٹلوں پر چم - [مثلاً] فنونِ مصارف پر تو لاکھوں اڑیں مگر ضروری اخراجات میں بچل گیا جائے۔

اشعار - (اش - عار) شعر کی جمع۔ ابیات۔

اشعر - (اش - عر) (ع صدف) (۱) زیادہ شعر کہنے والا (۲) بہت اور لمبے بالوں والا۔

اشعری - (اش - ری) (ع صدف) بہت لمبے بالوں والا [ع - ۱] ایک آدمی تھا جب پیدا ہوا تو اس کے سارے جسم پر لمبے لمبے بال تھے۔

اشعریہ - (اش - ری - ی) (ع - ۱) [ع - ۱] حکمائے اسلام کا ایک طبقہ۔ جمع: اشعریہ۔ ابو الحسن اشعری کے پیروکار۔

اشغال - (اش - غال) (ع - ۱) [ع - ۱] مشغل کی جمع۔ مشغلہ۔ کام۔

اشغلا - (اش - غ - لا) (ع - ۱) [ع - ۱] غنیمت و فادائی بات۔

اشغلا اٹھانا۔ طوفان اٹھانا۔ فتنہ برپا کرنا۔ ہنمان لگانا۔

اشغلا چھوڑنا۔ اونچی بات کرنا۔ چٹکلا چھوڑنا۔ کوئی بات بنا کر دو آدمیوں کو لڑو ادینا۔

اشفاق - (اش - فاق) (ع - ۱) [ع - ۱] شفقت کی جمع۔ مہربانیاں۔ مہربانیاں۔

اشفاق - (اش - فاق) (ع - ۱) [ع - ۱] نرمی کرنا۔ مہربانی کرنا۔

اشقیہ - (اش - ق - ی) (ع - ۱) [ع - ۱] شقی کی جمع۔ بد بخت۔ سنگدل۔ بے رحم خالو۔

اشک - (ف - ۱) [ع - ۱] آنسو۔ ٹسوا۔

اشکبار - اشک فشان - آنسو برسانے والا۔ رونے والا۔

اشکباری - آنسو برسانا۔ رونا۔

اشک بھرا - آنسو میں آنسو آجانا۔

اشک جگر سوز - جگر کو جلانے والا آنسو۔ گرم آنسو۔

اشک سوکھی - صبح کا رونا۔

اشک شادی - وہ آنسو جو فرط مسرت سے آنکھوں میں آجائیں۔

اشک شفق گوں - خون کے آنسو۔ شام کی شہری جیسے شہر آسو۔

اشک شمع - (ف صدف) جلتی ہوئی موم تپ کے گرتے ہوئے مومی قطرے۔

اشک سنوئی (۱) آنسو پونچھنا۔ رونے کی آنکھ پونچھنا (۲) تسلی دینا۔ دلاسا دینا۔

اشک فشانی - آنسو بہانا۔ رونا۔

اشک کباب - وہ پانی جو آگ پر رکھنے سے کباب میں سے نکلتا ہے۔

اشک ندامت - (ف صدف) نشتر اندر کی اڑ پانی کے باعث نکلنے والا آنسو۔

اشکال - (اش - کال) (ع - ۱) [ع - ۱] مشکل۔ دشواری۔

اشکال - (اش - کال) (ع - ۱) [ع - ۱] مشکل۔ دشواری۔

اشکال پیش آنا۔ دشواری پیش آنا۔

اشک - (اش - ک) (ت - ۱) [ع - ۱] تہمت۔ بہتان۔

اشک لگانا۔ تہمت لگانا۔ بہتان لگانا۔

اشکوک - (اش - لوک) (ع - ۱) [ع - ۱] نظریہ شہر بیت۔ دو (۲) حمد و نعت

اشنان - (اش - نان) (ع - ۱) [ع - ۱] غسل۔ نہلانا۔

اشوک - (اشوک) (س - ۱) [ع - ۱] ایک درخت کا نام (۲) تعلیم ہندوستان کے ایک مشہور راجہ کا نام۔

اشوک مخمری - داگ کا ایک قسم جس میں ۲۸ حروف ہوتے ہیں۔

اشہاد - (اش - اد) (ع - ۱) [ع - ۱] شاہد کی جمع۔ گواہ۔

اشہاد - (اش - اد) (ع - ۱) [ع - ۱] شہادت دینا۔ ثبوت پیش کرنا۔

اشہب - (اش - سب) (ع - ۱) [ع - ۱] سیاہ رنگ کا گھوڑا جس میں سفیدی غالب ہو۔ سبز گھوڑا (۲) مطلق گھوڑا۔

اشہر - (اش - ہر) (ع - ۱) [ع - ۱] زیادہ مشہور و معروف۔

اشتیاء - (اش - یاء) (ع - ۱) [ع - ۱] شے کی جمع۔ چیزیں۔

اشیائے صرف - روزمرہ استعمال کی چیزیں (Consumer Goods)

اشیر باد (س مٹ) دُعا سے خیر۔ آئیس۔ دُعا سے برکت۔

۱-ص

اصابت - (اصا۔ بت) (ع - ۱) [ع - ۱] رسائی۔ پہنچ (۲) ٹھیک بات کہنا

اصابع - (ع - مٹ) انگلیوں کی جمع۔

اصاعر - (ع - تصغیر) اصغر کی جمع۔ چھوٹے۔ سب سے چھوٹے۔

اصالت - (اصا۔ لت) (ع - ۱) [ع - ۱] اصلیت۔ اصل میں پیدا ہونے کی حالت۔

پچھلی عادت - قوی اثر نقطہ کا اثر۔

اصالت پر آجانا) جانا تعلق یا ناماندنی اثر کھانا (۱۰) شرارت پر اُترنا (۱۱) کہنہ پی پر اُترانا
 اصالتاً۔ (۱۔ ضا۔ ل۔ ن۔ ن۔) (ع۔ تابع مہمل) بذات خود۔ بلا وسیلہ خود آپ
 پر نفس نفیس (دکالتا کی صفت)
 اصالتاً حاضر۔ (کسی دلیل کے بغیر) خود حاضر ہونا۔
 اصباح۔ (ع۔ صبح) صبح کی جمع۔
 اصباح۔ (اص۔ باح) (ع۔ ۱۔ صبح) صبح کرنا۔
 اصح۔ (ع۔ تفعیل) درست ترین۔ بہت صحیح۔
 اصحاح۔ (ع۔ صحو) ہوشیاری مستی سے ہوشیاری میں آنا۔
 اصحاب۔ (اص۔ حاب) (ع۔ ۱۔ مذ) صاحب کی جمع (۱۱) ہم نشین۔ دوست۔
 (۲) وہ بزرگ جنھوں نے بحالت ایمان آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا
 اور ایمان پر فوت ہوئے۔
 اصحاب الأعدو و الخندق ولے یمن کا اوشاد ذونواس اور اس کے سپرد کا جنھوں
 نے اپنے ملک کے عیسائیوں کو خندق میں زندہ دین کر دیا تھا۔
 اصحاب الرائے۔ (ع۔ مذ) وہ فقہاء جو مسائل کے استنباط میں قیاس اور
 رائے سے کام لیں۔
 اصحاب الشمال۔ بائیں طرف ولے جن کی صفیں تخت رب العالمین کے بائیں
 طرف ہوں گی۔ روز حشری لوگ۔
 اصحاب الفرائض۔ اصحاب الفروض۔ (فقد) ہیں وہ وارث جن کے
 حصے قرآن مجید نے منعیں کر دیئے ہیں۔ ان کی تفصیل سورۃ النساء میں
 درج ہے۔
 اصحاب المیراث۔ حشری فقر کے دوسے وہ وارث جن کو اصحاب الفرائض
 کے بعد حصہ ملتا ہے۔
 اصحاب العین۔ داہنی طرف ولے لوگ۔ ہشت ولے لوگ۔
 اصحاب صفۃ۔ صحابہ کرام کا ایک گروہ جو وقت عبادت الہی میں مصروف
 رہتا تھا حضرت بلالؓ حضرت سلمانؓ حضرت ابوذر غفاریؓ اور حضرت
 زید ابن الخطابؓ اسی گروہ میں سے تھے۔
 اصحاب ظاہر (ظواہر) وہ لوگ جو قرآن و حدیث کے ظاہری یا ظنی پر چھوڑ
 کرتے ہیں اور ان کے خلاف کوئی معنی سننے دوست نہیں سمجھتے۔
 اصحاب قبل۔ بائیں ولے۔ امیر شاہ میں اور اس کا لشکر جو بائیں پر چھوڑ
 خانہ کعبہ ڈھانے آیا تھا اور جن کو خدا کے حکم سے پرندوں نے نکر مار مار کر
 تباہ و مہا دیکھا تھا۔
 اصحاب کعب۔ (۱) صحابہ غار (۲) مسلمانوں کے عقیدے میں بائیں راست
 یا نوآدمی جو ہزاروں سال کعب یعنی غار میں سو رہے ہیں اور قیامت کے دن
 اُٹھائے جائیں گے۔ ان کے ساتھ ایک کتاب بھی ہے۔
 اصرار۔ (اص۔ رار) (ع۔ ۱۔ مذ) (۱) ہٹ۔ صند۔ اڑ۔ (۲) تاکید۔
 اصراف۔ (اص۔ راف) (ع۔ ۱۔ مذ) صرف کی جمع۔ بہت سے خرچ۔
 اصراف۔ (اص۔ راف) (ع۔ ۱۔ مذ) صرف۔ خرچ۔ خرچ کرنا۔
 اصطباح۔ (اص۔ ط۔ باغ) (ع۔ ۱۔ مذ) (۱) رنگ چڑھانا۔ رنگ نہد
 میں ملانا (۲) عیسائی مذہب اختیار کرتے وقت سر پر پانی پھیرنے کی
 رسم ادا کرنا۔ بپتسمہ۔

اصطباح دینا۔ (۱) رنگنا (۲) عیسائی مذہب میں لانا۔ بپتسمہ دینا۔
 اصطباح لینا۔ عیسائی مذہب اختیار کرنا۔ بپتسمہ لینا۔
 اصطبیل۔ (اص۔ طیل) (ع۔ ۱۔ مذ) گھوڑوں کے باندھنے کی جگہ۔ طویلہ۔
 اصطرلاب۔ (اص۔ طر۔ لاب) (یو۔ ۱۔ مذ) ایک آلہ جس سے ستاروں کی
 بلندی و مقام اور وقت اور ریاضت کرتے ہیں۔
 اصطفاف۔ (ع۔ ص۔ ب۔ ی۔ ی۔) انتخاب (۲) چننا۔ منتخب کرنا۔
 اصطلاح۔ (اص۔ لا۔ ح) (ع۔ ۱۔ صحت) کسی علمی یا فنی کردہ کا کسی لفظ کے
 عام معنیوں کے علاوہ کوئی خاص معنی مقرر کر لینا۔ مرادی معنی۔
 اصطلاحات۔ (اص۔ و۔ ط۔ لا۔ حات) (ع۔ ۱۔ صحت) اصطلاح کی جمع۔
 اصطلاحی۔ (اص۔ ط۔ لا۔ ح) (ع۔ صحت) اصطلاح کی خاص معنی
 اور محاورے کے متعلق۔
 اصغر۔ (اص۔ صغ) (ع۔ صحت) نہایت چھوٹا۔ جمع: اصغیر
 اصغمان نصف جہان۔ (ف۔ نیش) ایران کا شہر اصغمان آدمی دنیا کے
 برابر ہے۔ کسی زمانے میں یہ شہر بہت آباد تھا۔
 اصغیا۔ (اص۔ ف۔ یا) (ع۔ ۱۔ مذ) صغریٰ کی جگہ۔ بزرگ لوگ چھٹے ہوئے
 لوگ۔ پاک باطن لوگ۔
 اصل۔ (ع۔ ۱۔ صحت) (۱) بیخ۔ بنیاد۔ جڑ (۲) منبع۔ سرچشمہ۔ نکاس۔ مادہ (۳)
 تخم۔ بیج (۴) سمت۔ جہت۔ خلاصہ (۵) سرشت۔ طینت۔ جبلت (۶) حقیقت
 ماہینت۔ کائنات (۷) نسب۔ نطفہ کا اثر۔ خاندانی اثر (۸) سبب (۹)
 سربراہ۔ پونجی۔ بیول۔ خلاف۔ سود مال (۱۰) ذات (۱۱) شریف۔ خاندانی
 (۱۲) کتاب کی عبارت۔ متن۔ قول (۱۳) اول۔ مقدم (۱۴) ٹھیک۔ سادہ
 (۱۵) خالص۔ بچ کھا۔ بے کھوٹ۔ کھرا۔ جمع: اصول۔
 اصل الاصول۔ (ع۔ مذ) خلاصہ۔ لب لباب۔ علت۔ غائی۔
 اصل الشیوہ۔ ایک قسم کی جڑ جو دوام میں کام آتی ہے۔ لمبھی۔
 اصل اصل سے نقل نقل۔ (آ۔ نیش) جو عمل کی اصل میں ہو سکتی ہے نقل میں
 نہیں ہو سکتی۔
 اصل اصول۔ جڑوں کی جڑ۔ اصلی بانٹ۔ جڑ کی بانٹ۔ حقیقی اور بنیادی
 شے۔ علت۔ غائی۔
 اصل بداز بدی خطا نہ کند۔ [شش] بد ضرور بدی کرتا ہے۔ کیفیت بدی
 کو چھوڑ نہیں سکتا۔
 اصل پر آجانا۔ (مماورہ) اپنے کاموں سے نسیلی یا فطری پستی میں آجانا۔
 اصل تیر سے۔ خیریت سے۔ بیزیر۔ سلامتی سے۔
 اصل سے خطا نہیں کم اصل سے وفا نہیں۔ [ایشش] شریف بڑائی
 نہیں کر سکتا اور ذلیل سے بھلائی نہیں ہوتی۔
 اصلا۔ (اص۔ لا) (ع) مطلقاً۔ ہرگز کبھی کسی حالت میں۔ بالکل۔ مطلق۔
 اصلاً۔ (اص۔ ل۔ ن) (ع۔ تابع فعل) اصل کے اعتبار سے۔
 اصلاح۔ (اص۔ لا۔ ح) (ع۔ ۱۔ صحت) (۱) صحت۔ درستی۔ برکت (۲) ترمیم
 قیصیح نظر ثانی (۳) طب کی اصطلاح اور یہ کو سبب مزاج پر لانا (۴)
 (آ۔ نیش) حجامت۔ درستی۔ خط۔ جمع: اصلاحات۔
 اصلاح بنوانا۔ حجامت بنوانا۔ خط بنوانا۔

اصلاح پذیر۔ (ع۔ ف) اصلاح قبول کرنے والا۔
 اصلاح لینا۔ (محاورہ) اپنی تخریر یا ایسا کلام درست کرنے کے لیے استاد کو دکھانا۔
 اصلاحات۔ (اص۔ لا۔ حات) [ع۔ ۱۔ مٹ] اصلاح کی جمع (۱) درستیوں
 ترمیمیں (۲) سیاسی اصطلاح میں حکومت کی وہ اصلاحیں جو نظریہ حکومت
 کی خوبیاں دور کرنے کے لیے رکھی گئی ہیں اور وہ حکومت کے لیے کی جانے والی اصلاحات (Reforms)
 اصولوں۔ (اص۔ لوں) [ا۔ ر] بالکل مطلق۔ اصل میں۔
 اصلی۔ (اص۔ لی) [ع۔ صفت] (۱) حقیقی۔ غلطی۔ ذاتی۔ حقیقی۔ پیدائشی۔ جبکہ۔ فطری۔
 (۲) مقدم۔ اول (۳) عمدہ۔ ٹھیک۔ سچ۔ دائمی۔ نقلی کی ضد۔
 اصلیت۔ (اص۔ لی۔ میت) [ع۔ ۱۔ مٹ] حقیقت۔ اصل بات۔ واقعیت۔
 اضم۔ (ا۔ جم) [ع۔ صفت] ہرا۔ کانوں سے پٹ۔
 اصناف (اص۔ ف) [ع۔ ۱۔ مٹ] صنف کی جمع۔ انواع۔ قسمیں۔ طرحیں۔
 اصنام (اص۔ نام) [ع۔ ۱۔ مذ] صنم کی جمع (۱) بتوں وغیرہ کے بت (۲) مجازاً معشوق۔
 اصوات۔ (اص۔ وات) [ع۔ ۱۔ مذ] صوت کی جمع۔ آوازیں۔
 اصول۔ (ا۔ صول) [ع۔ ۱۔ مذ] اصل کی جمع (۱) جڑیں۔ بنیادیں (۲) قواعد
 ڈھنگ۔ طور طریقہ۔ دستور (۳) اصولوں میں آرد میں بطور واحد
 مستقل ہے۔
 اصول بانڈھنا۔ قاعدہ مقرر کرنا۔
 اصول کلام۔ علم کلام میں مسائل کو دلائل عقلی سے ثابت کرنا۔
 اصولی موضوعہ۔ قائم کیے ہوئے قاعدے مقرر کیے ہوئے اصول۔
 اصولی۔ (ا۔ صول) [ع۔ صفت] (۱) اصول کے مطابق۔ کسی قاعدے قانون کے
 تحت (۲) مسلمانوں کا ایک فرقہ جو تقلید مجتہد کا قائل ہے۔
 اصہار۔ (ع۔ مذ) وہ رشتہ دار جن سے از روئے شریعت شادی ناجائز ہے۔
 اصیل۔ (اصیل) [ع۔ صفت] (۱) خالص نسل کا۔ شریف۔ نجیب۔ عالی خاندان
 (۲) [مٹ] ماما۔ خادم۔
 اصیل گھوڑے کو چابک کی حاجت نہیں۔ [مثلاً] (۱) اصیل گھوڑا مار
 کھائے بغیر سیدھا اور اچھا چلتا ہے (۲) شریف آدمی سے کام لینے
 کے لیے سختی کی ضرورت نہیں۔
 اصیل مرغ کھانے ٹھیکے۔ [مثلاً] خاندانی لوگوں کی بے نداری۔ شریف کی
 قدر نہ ہونا۔

اص-۱

اصناف۔ (اص۔ ف) [ع۔ ۱۔ مٹ] (۱) نسبت۔ لگاؤ۔ میل۔ ایک
 کلمے کا دوسرے کلمے سے لگاؤ جو فارسی اور عربی الفاظ میں مضاف کے لیے
 زیر لگانے اور آرد میں مضاف الیہ کے آگے، کا، کی، کے لگانے سے
 ظاہر کیا جاتا ہے۔ جیسے غلام زید یا زید کا غلام۔
 اصنافِ امینی۔ [ع۔ صفت] اولاد اور والدین کا تعلق جیسے اکبر کا لڑکا۔
 اصنافِ استعارہ۔ جب استعارہ تخلیلہ استعارہ بالکنایہ کی طرف مضاف
 ہوتا ہے تو اس اصناف کو اصنافِ استعارہ کہتے ہیں۔ جیسے
 "پائے فکر۔"

اضحلال - (اض - مح - لال) [ع - ۱ - مذ] پتھر کی گیل - سستی - کاہلی - انسرگی -

اظہار - (اظ - ہار) [ع - ۱ - مذ] ظاہر کی جمع - پاک لوگ -
 اظہر - (اظ - ہر) [ع - صغ] بہت پاک -
 اظیب - (اظ - یب) [ع - صغ] نہایت پاک - نہایت خوشبودار بہت اچھا -

ا - ط

اطاعت - (ا - ط - عت) [ع - ۱ - مث] تابع داری - بندگی - فرماں برداری -
 تعیل - حکم - جمع - اطاعات -

ا - ظ

أضلال - (اظ - لال) [ع - ۱ - مذ] نکل کی جمع - سلائے -
 اضلال - (اظ - لال) [ع - ۱ - مذ] سایہ ڈالنا -
 أظلام - [ع - مذ] تاریک کرنا -

اطاعت گزار - اطاعت کرنے والا - فرماں بردار -

أطاق - (أ - طاق) [ت - ۱ - مذ] مکہ - حجرہ والا -

أطال - (أ - طال) [ع - فعل ماضی] لمبا کرے - بڑھائے -

أطال اللہ عمرہ - خدا اس کی عمر بڑھائے - دعا نبیہ انقاب جو چھوٹوں کو
 لکھا جاتا ہے -

اطالوی - (ا - طال - وی) [ع - صغ] اطالیہ (اٹلی) سے منسوب - اٹلی کا باشندہ -

اطالیہ - یورپ کا ایک مشہور ملک (اٹلی)

اطبآ - (أ - طب - با) [ع - ۱ - مذ] طبیب کی جمع - وید - حکیم - ڈاکٹر - دوا دارو
 کرنے والے -

أطراف - (أ - ط - راف) [ع - ۱ - مث] طرف کی جمع - سمتیں - طرفیں - کنارے -

إطریض - (ا - ط - ری - ض) [ع - ۱ - مث] اتری پھل کا مغز - دیکھیے اتری پھل -

أطعمہ - (أ - ط - ع - م) [ع - ۱ - مذ] طعام کی جمع - کھانے - غذا - بھو جن -

إطفا - (ا - ط - فا) [ع - ۱ - مذ] آگ بجھانا -

إطفال - (ا - ط - فال) [ع - ۱ - مذ] طفل کی جمع - لڑکے - بال بچے -

إطلاح - (ا - ط - ط - ل - اح) [ع - ۱ - مث] (۱) آگاہی - خبر - رپورٹ (۲) نوٹس
 اعلان - (انتہار - جمع : اطلاعات -

أظلم - (اظ - لم) [ع - صغ] بہت بڑا ظلم - نہایت تکلیف دینے والا -
 اظہار - (اظ - ہار) [ع - ۱ - مذ] (۱) کھولنا - ظاہر کرنا - ظاہر ہونا (۲) بیان شہادت
 کیفیت حقیقت (۳) وہ بیان جو عدالت میں دیا جائے -

اظہار حلفی - قسمی گواہی -

اظہار دینا - عدالت میں گواہی دینا - بیان لکھوانا -

اظہار رقانوی - قانون کی رو سے درست گواہی -

اظہار کرنا - (مجادرہ) بیان کرنا - ظاہر کرنا -

اظہار لبیہ (مجادرہ) بیان لینا - گواہی لینا - اہل مقدمہ سے مقدمہ کے حالات سننا -

اظہار نامہ - عدالت کا سمن - اطلاع نامہ -

اظہار نویس - دہ محرر جو بیان اور دہنا دت لکھتا ہے -

اظہر - (اظ - ہر) [ع - صغ] خوب ظاہر - نہایت صریح اور واضح -

اظہر من الشمس - سورج سے زیادہ ظاہر - سورج کی طرح ظاہر اور عیاں -

اطلاع نامہ - وہ چٹھی جو خبر دینے کے لیے بھیجی جائے - سمن - نوٹس - پڑانا
 حکم نامہ -

ا - ع

إطلاعاً - (ا - ط - ل - اع) [ع - ۱ - مث] برائے اطلاع - آگاہی کے لیے
 باخبر کرنے کے لیے -

اطلاع یابی - [ع - ف - مث] خبر پانا - آگاہ ہونا - باخبری -

إطلاعی - (ا - ط - ل - اع) [ع - ف - مث] خبر دینے والی - آگاہ کرنے والے
 (چٹھی) نوٹس یا خبر دینے والے چیز جو کسی کے متعلق اطلاع دے -

إطلاق - (ا - ط - لاق) [ع - ۱ - مذ] روان کرنا - جاری کرنا - بولا جانا - استعمال ہونا
 منطبق ہونا - عائد ہونا کسی چیز کا دوسری پر محمول کرنا -

اطلاق نویس - سمن کے اجراء اور خرچ کا حساب کتاب رکھنے والا انسر -

اطلس - (أ - ط - لس) [ع - ۱ - مذ] ایک نغمہ کارستانی کیڑا -

إطمینان - (ا - ط - م - ن - ان) [ع - ۱ - مذ] دل جمعی - ڈھارس - خاطر جمع - تسلی
 دل سار - صبر - طمانیت -

أطناب - (أ - ط - ناب) [ع - ۱ - مذ] مٹ [ع - صغ] کی جمع - رطنا میں تینوں کی رسیاں

أطناب - (ا - ط - ناب) [ع - ۱ - مذ] بات کو طویل لینا -

أطوار - (أ - ط - وار) [ع - ۱ - مذ] طور کی جمع - وضع - ڈھنگ - طریقے - چال چلن
 روش -

أطول - (أ - ط - ول) [ع - صغ] بہت طویل - بہت لمبا -

إعادة - (ا - ع - ا - د) [ع - ۱ - مذ] لوٹانا - پھیر کر لوٹانا - دوہرانا - بار بار کرنا -

إعادة شباب - (ع - مذ) بڑھاپے میں جوانی کی دوبارہ طاقت - آمنگ پیدا کرنا -

أعظم - (أ - ع - ظ - م) [ع - ۱ - مذ] اعظم کی جمع - بہت بڑے لوگ -

إعانت - (ا - ع - انت) [ع - ۱ - مث] مدد - سہارا - جمع : إعانتات -

إعانت مجرمانہ - جرم میں مدد دینا -

إعتاق - (ا - ع - تاق) [ع - ۱ - مذ] غلام یا باندی کو آزاد کرنا -

إعتبار - (ا - ع - ت - ار) [ع - ۱ - مذ] (۱) تکیہ - بھروسا - ساکھ - اتماد (۲) یقین
 (۳) لحاظ (اس اعتبار سے وہ تم سے اچھا ہے) جمع : إعتبارات -

اعتبار آنا - یقین آنا -

اعتبار اٹھانا - اعتبار جانا - اتماد میں ٹہرنا - ساکھ نہ رہنا -

اعتبار کرنا - بھروسہ کرنا - یقین کرنا -

اعتبار نامہ - سند - سرٹیفیکٹ -

اعتباری - (ا - ع - ت - ار) [ع - صغ] قابل اعتبار معتبر - بھروسے کے لائق -

إعتدال - (ا - ع - ت - ال) [ع - ۱ - مذ] نہ زیادتی - درمیانی درجہ - میانہ روی -

إعتدال پر رہنا - (مجادرہ) میانہ روی رکھنا - ہر کام مناسب طریق پر کرنا -

إعتدال پسند - میانہ روی پسند کرنے والا -

اعتذار (اع۔ ت۔ ذار) (ع۔ ا۔ مذ) عُذْرًا كَرِمًا عُذْرًا هِيَ -
 اعتراف (اع۔ ت۔ راض) (ع۔ ا۔ مذ) [۱] مَكْتَمَةٌ جَبِينِي غَيْبِي كَوْنِي - كَرَمْتِ
 (۲) حُجَّتٌ رَمَحَانَتٌ - جمع: اعترافات -
 اعتراف اٹھانا (۱) مَكْتَمَةٌ جَبِينِي كَرِمًا (۲) مَكْتَمَةٌ جَبِينِي كَوْنِي جَوَابِ دِينَا -
 اعتراف جڑنا۔ اعتراف جانا۔ اعتراف کرنا (بے تعلقی کے موقع پر بولتے ہیں)
 اعتراف کرنا۔ ٹوٹنا۔ گرفت کرنا۔ مکتَمَةٌ جَبِينِي كَرِمًا غَيْبِي كَوْنِي لَكَا نَا -
 اعترافی (ن۔ ا۔ مرث) ناراضی خفگی [صف] اعتراف کرنے والا۔
 اعتراف۔ (ع۔ مذ) اِثْرٌ خَوْبِي - بھیلاد۔ جوہر -
 اعتراف (اع۔ ت۔ راف) (ع۔ ا۔ مذ) اِفْرَارٌ كَرِمًا تَسْلِيمٌ كَرِمًا مَانِ لِيْنَا -
 اعتراف (اع۔ ت۔ زال) (ع۔ ا۔ مذ) عَرَلَتْ نِشْبِي - گوشے میں بیٹھنا -
 الگ ہو بیٹھا۔ علیحدگی سخت چھوڑ دینا۔ دست بردار ہونا -
 اعتصام (اع۔ ت۔ صام) (ع۔ ا۔ مذ) (۱) مَضْبُوغِي سَيِّئًا (۲) پَرِيهْرِي كَارٌ
 ہونا۔ اپنے آپ کو گناہ سے بچانا۔
 اعتقاد (اع۔ ت۔ قاد) (ع۔ ا۔ مذ) عَقِيدَةٌ - یقین۔ بھروسا۔ ایمان -
 دھرم - جمع: اعتقادات
 اعتقاد اٹھ جانا۔ یقین نہ رہنا۔ عقیدہ جاتا رہنا -
 اعتقاد رکھنا۔ یقین رکھنا۔ معتقد ہونا۔
 اعتقادی (اع۔ ت۔ قادی) (ع۔ صف) (۱) اِعْتِقَادِي سَمْعِي [ن] -
 اعتقاد رکھنے والا۔ معتقد۔
 اعتکاف (اع۔ ت۔ کاف) (ع۔ ا۔ مذ) نَفْسٌ كُو دُنْيَا دِي لِذَانِدٍ سَيِّئًا
 رکھنا۔ مسجد میں معینہ مدت کے لیے گوشہ نشین ہونا -
 اعتکاف سے ملنا۔ اعتکاف سے باہر آنا۔ معینہ گوشہ نشینی کو ختم کرنا۔
 اعتلا (اع۔ ت۔ لا) (ع۔ ا۔ مذ) بَلَدِي - اُدْجَائِي -
 اعتقاد (اع۔ ت۔ ماو) (ع۔ ا۔ مذ) اِعْتَبَارٌ رَهْبَرُ سَا - یقین -
 اعتنا (اع۔ ت۔ نا) (ع۔ ا۔ مذ) (۱) عَمَّ خَوَارِي كَرِمًا هَمْدِي كَرِمًا (۲) پَرُو كَرِمًا
 غور و پردہ اختیار کرنا۔
 اعجاز (اع۔ ت۔ جاز) (ع۔ ا۔ مذ) عَجْزَةٌ خَيْرٌ عَادَتٌ - كَرَامَتٌ - كَرِشْمَةٌ
 اعجاز بیان (۱) اِبْرَاهِيْمَاتٌ جَادُ سَيَانٌ - نَهَابَتٌ بَصِيحِ الْبَيَانِ (۲) اِبْرَاهِيْمَاتٌ
 کلام کا معجزہ۔ تفسیر کا جادو۔
 اعجاز دکھانا (۱) عَجْزَةٌ خَيْرٌ عَادَتٌ - كَرَامَتٌ - كَرِشْمَةٌ
 اعجاز (عیسوی) مسیحائی (۱) حَضْرَتٌ عَيْسَى كَامِعْجَزَةٍ جَن كَمِ دَمٍ سَيِّئًا
 تندرست اور مژدے زندہ ہونے سے پہلے (۲) اِبْرَاهِيْمَاتٌ تَنْدَرِيسْتٌ هُونَا
 ماد زرد اندھے اور گورھی کو اچھا کرنا۔
 اعجاز (اع۔ ت۔ جوبہ) (ع۔ ا۔ مذ) حَيْبٌ شَيْئٌ - اَوَّلُ حَيْبٍ طَرَفٌ تَمَاشَا -
 اعجاز (اع۔ ا۔ دا) (ع۔ ا۔ مذ) عُدُو كِي جَمْعٌ - نِشْنٌ - پَرِي - مَخَالِفٌ -
 اعداد (اع۔ ا۔ داد) (ع۔ ا۔ مذ) عَدَدٌ كِي جَمْعٌ - كِنْتِي - ہندسہ۔ رقم جیسے (۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴)
 اعداد قدامت۔ دو طاق ہندسے جنہیں کوئی ہندسہ پورا تقسیم نہ کر سکے جیسے (۱۱، ۱۳، ۱۷، ۱۹)
 اعداد متداول۔ وہ ہندسے جنہیں کوئی عدد پورا تقسیم کر کے جفت اعداد
 اعداد متماثل۔ ایک دوسرے سے مشابہ عدد (۲-۳، ۴-۴، ۵-۵)

اعداد متوافق۔ وہ ہندسے جو دوسرے ہندسوں کو پورا تقسیم کر سکیں۔
 اعداد و شمار۔ شماریات۔ کسی ملک کے باشندوں کی تعداد اور ان کے پیشوں
 وغیرہ کے متعلق معلومات۔ کسی ملک کی صنعتی، تجارتی، تعلیمی اور دوسری
 سرگرمیوں کے متعلق محل اطلاعات (Statistics)
 اعدل (اع۔ ا۔ دل) (ع۔ صف) بہت عدل کرنے والا۔ بہت بڑا منصف۔
 اعراب (اع۔ راب) (ع۔ ا۔ مذ) بَدُوٌ عَرَبٌ كَيْ صَحْرَانِشِيْنٌ -
 اعراب (اع۔ راب) (ع۔ ا۔ مذ) زَبْرُورِيْشِيْنٌ كِي عَلَامَتِيْنٌ - حروف کی
 حرکات ظاہر کرنے والی حرکات۔
 اعرابی (اع۔ رابی) (ع۔ ا۔ مذ) عَرَبٌ كَابَدُوٌ صَحْرَانِشِيْنٌ عَرَبٌ كَمَنُوَارٌ
 اجد۔
 اعراض (اع۔ راض) (ع۔ ا۔ مذ) مَنُذِرِيْنَا - بَجِيْنَا - مُرُو كَرِنَا -
 اعرف (اع۔ راف) (ع۔ ا۔ مذ) (۱) دَوْرُخٌ اَوْرِبَهَشْتٌ كِي دَرْمِيَانٌ كَا
 مقام۔ (۲) قُرْآنٌ كِي اَيْكٌ سُوْرَتٌ كَا نَامٌ -
 اعزاز (اع۔ ناز) (ع۔ ا۔ مذ) عَزَّتٌ - رُتَبَةٌ - مَرْتَبَةٌ - جمع: اعزازات
 اعزازی (اع۔ نازی) (ع۔ صف) (۱) تَعْرِيفِي - تَسَانُسِي (۲) عَزَّتٌ بُرْهَانِي
 والا۔ (۳) تَحْقِيقٌ - ہدایت
 اعزازیہ (ع۔ مذ) وہ نذرانہ جو کسی کی خدمات کے اعتراف کے طور پر پیش کیا
 جائے۔ (انگ) (Honorary)
 اعزہ (اع۔ زہ) (ع۔ ا۔ مذ) عَزِيْزِي كِي جَمْعٌ - بھائی بندہ۔ رشتے دار
 اعصاب (اع۔ صاب) (ع۔ ا۔ مذ) عَصَبٌ كِي جَمْعٌ - پٹھے -
 اعصابی (اع۔ صابی) (ع۔ صف) اعصاب سے متعلق۔
 اعصابی جنگ۔ سرد جنگ۔ ایسی جنگ جس میں دو مخالف ملک یا بلاک
 سیاسی میدان میں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کریں۔
 (Coldwar)
 اعضا (اع۔ ضا) (ع۔ ا۔ مذ) عَضُو كِي جَمْعٌ - بدن کے اعضا۔ ہاتھ پاؤں وغیرہ۔
 اعضا شکنی۔ جوڑوں میں درد ہونا۔ بدن ٹوٹنا۔
 اعضائے ریلوے۔ دل۔ دماغ۔ جگر وغیرہ۔
 اعطا (اع۔ طا) (ع۔ ا۔ مذ) بَخْشِشٌ كَرِمًا عَطَا كَرِمًا - دینا۔
 اعظم (اع۔ ظم) (ع۔ صف) نہایت بڑا۔ بزرگ۔ جمع: اعظام۔
 اعقاب (اع۔ قاب) (ع۔ ا۔ مذ) عَقَبٌ كِي جَمْعٌ - پس ماندگان۔ آل و اولاد
 جو باپ کے مر جانے کے بعد باقی رہے۔ پچھلی نسل۔
 اعلا (اع۔ لا) (ع۔ ا۔ مذ) بَلَدٌ كَرِمًا - غَالِبٌ كَرِمًا -
 اعلام (اع۔ لام) (ع۔ ا۔ مذ) عِلْمٌ كِي جَمْعٌ - جھنڈے۔
 اعلام (اع۔ لام) (ع۔ ا۔ مذ) اَخْبِرْ دِيْنَا - اِگَاہ كَرِمًا بَجَلَانَا ظَاہِرًا كَرِمًا لَكَا لِيْنَا
 (۲) پَرُو نَدُو - نوٹس۔
 اعلامیہ (اع۔ لامیہ) (ع۔ ا۔ مذ) اِعْلَانٌ سِرْكَارِي اِعْلَانٌ -
 اعلان (اع۔ لان) (ع۔ ا۔ مذ) ظَاہِرٌ كَرِمًا شَهْرَتٌ دِيْنَا مَشْهُورٌ كَرِمًا هَشْتَدًا
 پٹینا۔ جمع: اعلانات۔
 اعلم (اع۔ لم) (ع۔ صف) بہت جاننے والا۔ بہت بڑا عالم۔
 اعلمی (اع۔ لا) (ع۔ صف) بہت بلند۔ بہت اوجھا۔ بلند مرتبہ۔

ا-ف

اُف [ع] (۱) آہ - اودہ (حیرت) درد یا رنج کے اظہار کے لیے (۲) افسوس (تاسف کے لیے) (۳) کسی چیز کی زیادتی ظاہر کرنے کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔

اُف اُف کرنا - کراہنا - آہ آہ کرنا۔

اُف تیرا کاٹنا نہ مجھے - سخت ظالم - مردم آزار یا فزیبی و مہندہ پردازی نسبت دیتے ہیں۔

اُف رے - (کلمہ حیرت) آہ سے - اور رے - اللہ رے - بتائے رے۔

اُف کر دینا - (مجاددہ) جلا کر خاکستر کر دینا (۲) اجاڑ دینا - تباہ کر دینا۔

اُف نہ کرنا - (مجاددہ) (۱) سانس نہ نکالنا - صدمہ کے باوجود مزے سے آہ نہ نکالنا (۲) کچھ نہ لانا - شکایت زبان پر نہ لانا (۳) ضبط کرنا۔

اُف ہو جانا - (مجاددہ) خاک اُڑھانا - کچھ باقی نہ رہنا۔ صفیا ہو جانا جل کر راکھ ہو جانا - مٹ جانا - فنا ہو جانا۔

اُفادہ - (افا - وہ) [ف - ا] - فائدہ پہنچانا (۲) نفع - یافت (۳) تعمیم تلقین

تربیت - جمع : افادات

افادۂ عام - سب کو فائدہ پہنچانا۔

افاضل - (۱) فاضل [ع - ا] - (۲) افضل کی جمع - عالم و فضل لوگ - بزرگ لوگ۔

افاضلہ - (۱) فاضلہ [ع - ا] - (۲) فیض پہنچانا - فائدہ پہنچانا - جمع : افاضات

افاعیل - (۱) فاعیل [ع - ا] - (۲) علم غرض کے ارکان جن سے بحری بنائی جاتی ہیں

افاغندہ - (۱) فاعغندہ [ع - ا] - (۲) افغان کی جمع - افغانستان کے لوگ - پھان -

افاقہ - (۱) فاقہ [ع - ا] - (۲) ہوش میں آنا (۳) تندرستی آرام مرض میں کمی

صحت - آرام - شفا

افیا - (۱) فیا [ع - ا] - (۲) فتویٰ دینا۔

افساد - (۱) فساد [ع - ا] - (۲) کھٹکھٹاؤ (۳) انفاق اور اچانک

ساختہ (۳) بنیاد - ابتدا شروع (۴) فطرت طبیعت۔

افساد پڑنا - حادثہ پیش آنا - مصیبت آنا۔

افسادگی - (۱) فسادگی [ع - ا] - (۲) عاجزی - انکسار - خاکساری۔

تنگدستی - افلاس۔

افسادہ - (۱) فسادہ [ع - ا] - (۲) گرا پڑنا - در ماندہ (۳) بغیر جوتی ہوئی

ناکارہ زمین وغیر مزد و عزمین - جمع : افسادگان

افساق و خیراں - (۱) افساق - (۲) خیراں - (۳) فساد - (۴) فساد - (۵) گرتے پڑتے

بدحواسی کی حالت میں (۲) ہمت مشکل سے۔

افتتاح - (۱) افتتاح [ع - ا] - (۲) شروع کرنا - کھولنا - ظاہر کرنا۔

بے نقاب کرنا۔

افتتاحیہ - (۱) افتتاحیہ [ع - ا] - (۲) اخبار کا ادارہ - ایڈیٹریل

(۳) کتاب کا دیباچہ (صفت) افتتاح سے منسوب۔

افتخار - (۱) افتخار [ع - ا] - (۲) فخر - بزرگی - عزت - ناز - گھمنڈ۔

افترا - (۱) افترا [ع - ا] - (۲) تمہت - بہتان - جھوٹا الزام۔

افترا باندھنا - تمہت لگانا - بہتان باندھنا۔

افترا پر داز - تمہت لگانے والا - الزام لگانے والا۔

اعلیٰ علیین - بلند بہشت - بہشت کا سب سے بڑا درجہ۔

اعمالی - (۱) اعمالی [ع - ا] - (۲) عمل کی جمع - گمبیاں۔

اعمال - (۱) اعمال [ع - ا] - (۲) عمل کی جمع (۱) کام - افعال - کرنی (۲) ورد - وظائف۔

اعمال نامہ - (۱) وہ رجسٹر جس میں کرانہ کا تین انسان کے برے بھلے

کام لکھتے ہیں - (۲) وہ رجسٹر جس میں سرکاری ملازموں کی کارکردگی

لکھی جاتی ہے - (انگس) (Service Book)

اعمام - (۱) اعمام [ع - ا] - (۲) عم کی جگہ - چچا اور بھوپچا۔

اعلیٰ - (۱) اعلیٰ [ع - ا] - (۲) اندھا - نابینا - جمع : علیان۔

اعنی - (۱) اعنی [ع - ا] - (۲) میں مراد رکھتا ہوں - میری مراد ہے (مشکل کا حل)

اعوان - (۱) اعوان [ع - ا] - (۲) عون کی جمع - ہمت سے حامی اور مددگار۔

اعیان - (۱) اعیان [ع - ا] - (۲) عین کی جمع (۱) آنکھیں (۲) چشمے (۳)

آراء و ذرا سرسردہ لوگ۔

ا-غ

اغذیہ - (۱) اغذیہ [ع - ا] - (۲) غذا کی جمع - غذائیں خوراکیں کھانے۔

اغراض - (۱) اغراض [ع - ا] - (۲) غرض کی جمع - مطالب - مقاصد - مقاصد

ارادے - حاجتیں۔

اغراق - (۱) اغراق [ع - ا] - (۲) بہت بہت مانگ کرنا - بہت بڑھا چڑھا کر

بیان کرنا (۲) ڈبو دینا۔

اغلاط - (۱) اغلاط [ع - ا] - (۲) غلطی کی جمع - جھول چوک - غلطیاں۔

اغلاقی - (۱) اغلاقی [ع - ا] - (۲) کلام کو مشکل کرنا پیچیدہ کرنا۔

اغلام - (۱) اغلام [ع - ا] - (۲) لوگوں کے ساتھ بھٹی کرنا - بواہت - بوٹھے بڑی

خلاف وضع نظری۔

اغلامی - (۱) اغلامی [ع - ا] - (۲) صفت (۱) بوٹھے باز - اغلام کرنے والا۔

(۲) اغلام کرانے والا۔

اغلب - (۱) اغلب [ع - ا] - (۲) صفت (۱) غالب تر - زیادہ غالب یقین کے تریب۔

ضرور یقینی۔

اغلی - (۱) اغلی [ع - ا] - (۲) غلی [ع - ا] - (۳) ادھر ادھر - اس پاس۔

اغلط - (۱) اغلط [ع - ا] - (۲) صفت (۱) غلط - (۲) غلط۔

اغزاز - (۱) اغزاز [ع - ا] - (۲) ناز کرنا - غمزہ - ناز و ادا (۲) غرور۔

گھنڈ - اڑانا۔

اغراض - (۱) اغراض [ع - ا] - (۲) گرد گردانی کرنا - درگزر - چشم پوشی۔

اغنیبا - (۱) اغنیبا [ع - ا] - (۲) غنی کی جمع - دولت مند لوگ۔

اغوا - (۱) اغوا [ع - ا] - (۲) اغوا کرنا - ہلکانا (۲) ہلکا کر بھگانے جانا۔

سے بھاگنا (۳) بھگانا - بھگانا - افسانہ۔

اغوار کرنا - (۱) بھگانا - درغلانا (۲) کسی کو بھگانے بھگانا۔

اغیار - (۱) اغیار [ع - ا] - (۲) غیر کی جمع (۱) اجنبی - بیگانے جن سے رشتہ داری

نہ ہو (۲) عدد و دشمن - رقیب۔

افتر اپروازی - بتان لگانا - الزام دینا - نتمت رکھنا۔
 افتراق - (اف۔ت۔راق) (ع۔۱۔مذ) جدائی پیدا کرنا۔ جدائی۔ اختلاف۔
 اقبیولن - (اف۔تی۔مٹوں) (ع۔۱۔مذ) اکاؤنٹ بیل۔ امر بیل۔ ایک دو۔
 افراقفری - (اف۔ت۔راف۔ت) (ری۔۱۔مذ) افراط و تفریط کا مخرّب۔
 اہل چل - تھلکہ۔ گھبراہٹ۔ پریشانی۔ کھلبلی۔
 افراو - (اف۔ت۔راد) (ع۔۱۔مذ) فزونی جمع۔ لوگ۔
 افراوڑ - (اف۔ت۔لا۔خض) افراط کا صیغہ امر جو آہم کے آنے کے بعد سے فاعل
 بنا دیتا ہے۔ اوجھا کرنے والا۔ بلند کرنے والا۔ جیسے سرفراو۔
 افرا سیاب - (اف۔ت۔را۔س۔باب) (اف۔ت۔۱۔مذ) قرآن کے ایک بہادر
 بادشاہ کا نام۔
 افراط - (اف۔ت۔راط) (ع۔۱۔مذ) زیادتی۔ کثرت۔ بہتات۔ فرادانی۔
 افزونی (۲) معتدداً سے بڑھ جانا۔
 افراط زر - (اف۔ت۔مذ) پیسے کی زیادتی (۲) ملک میں سکے کا پھیلاؤ زیادہ ہو جانا۔
 یہ اس صورت میں ہوتا ہے جب کہ ایشیائے صحت کی پیداوار (درآمد) کم اور
 سکے کی اشاعت (طلب) زیادہ ہو۔ افراط زر کی حالت میں چیزوں کی قیمتیں
 بے سناشا چڑھ جاتی ہیں (انفلیشن) (Inflation)
 افراط و تفریط - کمی بیشی۔ غیر معتدل حالت۔
 افزبھی - (اف۔ت۔رن۔جی) (معرب۔۱۔مذ) فرنگی۔ یورپ کا باشندہ۔
 افزبجیت - (اف۔ت۔رن۔ج۔میت) (معرب۔۱۔مذ) فرنگی پن۔
 افزبک - (اف۔ت۔مذ) انگریز۔ یورپی۔
 افزبکی - (اف۔ت۔صفت) یورپ کا باشندہ۔
 افروختہ - (اف۔ت۔رو۔ختر) (اف۔ت۔صفت) (۱) جلا جھٹکا جلا ہوا (۲) روشن
 افروختہ کرنا۔ (۱) آگ جلا جلا (۲) روشن کرنا۔
 افروزہ - (اف۔ت۔روزہ) (اف۔ت۔۱۔مذ) چراغ کی تپتی۔
 افریقہ - (جزا فیہ) ایک بڑا عظیم جو یورپ اور بحرہ روم کے جنوب میں اور بحرہ ہند اور
 بحرہ اریٹریا کے درمیان واقع ہے خط استوا اس کو دو صائب میں سے گزرتا ہے۔
 افریقی - (اف۔ت۔ری۔تی) (ع۔۱۔مذ) (۱) بڑا عظیم افریقہ سے منسوب
 (۲) افریقہ کا باشندہ۔
 افزا - (اف۔ت۔زا) (اف۔ت۔صفت) بڑھانے والا مرکبات میں متعل ہے جیسے صحت افزا۔
 افزائش - (اف۔ت۔زائش) (اف۔ت۔۱۔مذ) پیشی۔ زیادتی۔ افزونی۔ بڑھوتری۔
 افزائندہ - (اف۔ت۔زائ۔ان۔دہ) (ع۔۱۔مذ) بڑھانے والا۔
 افزود - (اف۔ت۔زود) (اف۔ت۔صفت) زیادہ۔ حاصل۔ زائد۔
 افزون - (اف۔ت۔زون) (اف۔ت۔صفت) زیادہ۔ بڑھ کر۔ بیش۔ بہت۔
 افزونی - (اف۔ت۔زونی) (اف۔ت۔۱۔مذ) زیادتی۔
 افساد - (اف۔ت۔ساد) (ع۔۱۔مذ) فساد کرنا۔ تباہ کرنا۔
 افشاں - (اف۔ت۔ساں) (اف۔ت۔۱۔مذ) سان چھری پاؤ ڈبیرہ تیز کرنے والا آلہ۔
 افسانوی - (اف۔ت۔سا۔نوی) (ع۔۱۔مذ) افسانے سے منسوب۔
 افسانویست - (اف۔ت۔سا۔ن۔وی۔میت) (اف۔ت۔۱۔مذ) افسانہ نویس۔
 افسانہ کی کھینچت۔

افسانہ - (اف۔ت۔سا۔نہ) (اف۔ت۔۱۔مذ) (۱) داستان۔ قصہ۔ کہانی (۲)
 جھوٹی بات (۲) سرگزشت۔ حال۔ سدا (۳) طویل بات (۵)
 ذکر۔ مذکور۔ چرچا۔
 افسانہ گو - افسانہ کہنے والا۔ داستان گو۔
 افسانہ گوئی - کہانی کہنا۔ داستان گوئی۔
 افسانہ نگار (نویس) - افسانہ کہنے والا۔
 افسانہ نگاری (نویسی) - افسانہ کہنا۔
 افسر - (اف۔ت۔سر) (اف۔ت۔۱۔مذ) (۱) سردار۔ عہدہ دار (۲) تاج و تخت۔
 (انگ) (Officer)
 افسر مال - محکمہ مال کا عہدہ دار جس کے پاس ضلع کی مالگداری کی وصولی کا
 کام ہے۔ (انگ) (Revenue Officer)
 افسروگی - (اف۔ت۔سروگی) (اف۔ت۔۱۔مذ) کھلا ہوا۔ انحصار۔ پتھر دگی۔
 افسردہ - (اف۔ت۔سردہ) (اف۔ت۔صفت) بھٹکا ہوا۔ مر جھکایا ہوا۔ پتھر دہ۔ غم گین۔
 اُداس۔ بے چہرہ۔ دلگیر۔ جمع : افسوگان۔
 افسردہ خاطر (دل) - بے چہرہ۔ بگھے ہوئے دل والا۔ اُداس۔ بددل۔
 افسردہ دل افسردہ کند اگھنے را - (اف۔ت۔۱۔مذ) مقولہ اغمزہ آدی ساری
 انجن کو ٹھیک کر دیتا ہے۔
 افسری - (اف۔ت۔سری) (اف۔ت۔۱۔مذ) حکومت۔ سرداری۔
 افسطین - (اف۔ت۔سین۔طین) (یو۔۱۔مذ) ایک دوا کا نام۔
 افسوس - (اف۔ت۔سوس) (اف۔ت۔۱۔مذ) دریغ۔ پھٹاوا۔ غم۔ رنج۔ قلق۔ صدمہ۔
 افسوس آنا۔ قلق ہونا۔ تاسف ہونا۔
 افسوس کرنا (کھانا) - رنج کرنا۔ تاسف کرنا۔
 افسوس ناک - افسوس سے بھرا ہوا۔ قابل افسوس۔
 افسون - (اف۔ت۔سون) (اف۔ت۔۱۔مذ) (۱) جادو۔ سحر۔ منتر (۲) فریب (۳) دھوکا۔
 افسوں (پھونکنا) کرنا۔ (مجادرہ) (۱) منتر پھونکنا۔ جادو کرنا (۲) ہمکانا۔
 افسوں چل جانا۔ (مجادرہ) قابو میں آجانا۔ دھوکا کھا جانا۔ فریب میں آجانا۔
 افسوں ساز - (اف۔ت۔ساز) جادوگر۔ ساحر۔
 افشا - (اف۔ت۔شا) (ع۔۱۔مذ) ظاہر کرنا۔ فاش کرنا۔ آشکار کرنا۔ کھونا۔
 افشائے راز - بھید کھلنا۔ پردہ فاش ہونا۔ کسی چھپی ہوئی بات کا ظاہر ہو جانا۔
 افشار - (اف۔ت۔شار) (اف۔ت۔صفت) بھڑکنے والا۔
 افشاں - (اف۔ت۔شاں) (اف۔ت۔۱۔مذ) (۱) سونے چاندی کا برادہ یا بمقیش کی
 بار بیک کترن جو خوبصورتی کے لیے عورتیں بالوں پر چھپھرتی یا ماتھے پر
 چھپتی ہیں (۲) جو چھپھرتی جاتے۔
 افشاں افزا - (مجادرہ) چھپی ہوئی افشاں کا چھٹ جانا۔
 افشاں آڑانا۔ (مجادرہ) حاضرین پر افشاں ڈالنے کے لیے ہوا میں آڑانا۔
 افشاں (شانا) کترنا۔ (مجادرہ) مقیش یا گونے کو کترنے کے افشاں تیار کرنا۔
 افشاں جمانا۔ (مجادرہ) سینے سے پیشانی اور رخسار پر افشاں لگانا۔
 افشاں چھیننا۔ (مجادرہ) ماتھے پر افشاں لگانا۔
 افشاں چھڑانا۔ (مجادرہ) لگی ہوئی افشاں کو الگ کرنا۔
 افشاں کرنا۔ (مجادرہ) بالوں پر افشاں ڈالنا۔

افشال کرنا - رنگ چھرنا -
 افشانی - (اف - ثانی) [ف - صف] افشاں سے منسوب [مٹ] پھرنے کا بھینا
 افشانی کا غند - وہ کاغذ جس پر رنگ یا افشاں چھڑکی ہوئی ہو۔
 افشردہ - (اف - ثمر - وہ) [ف - صف] پچڑا ہوا (مذ) دشمنیت جو پھل وغیرہ
 پھوڑ کر بنایا جائے۔
 افصح - (اف - صغ) [ع - صف] بہت فصیح - نہایت خوش کلام - نہایت خوش بیا۔
 افضال - (اف - ضال) [ع - صف] فضل کی جمع - کرم - مہربانیاں -
 افضالی - (اف - ضال) [ع - ا - مذ] مہربانی کرنا - کرم کرنا۔
 افضلی - (اف - ضل) [ع - صف] بزرگ ترین - بہترین - عمدہ ترین - نہایت اچھا
 جمع : افاضل
 افضلیت - (اف - ضی - لی بیت) [ع - ا - مٹ] بزرگی - بڑائی - فضیلت
 افطار - (اف - طار) [ع - ا - مذ] روزہ کھولنا۔
 افطاری - (اف - طاری) [ا - ر - مٹ] (۱) وہ چیز جس سے روزہ
 کھولیں (۲) روزہ کھولنا۔
 افعال - (اف - عال) [ع - ا - مذ] فعل کی جمع (۱) کام - اعمال (۲) مشتقاتِ مصدر
 جن میں زمانہ پایا جائے (۳) تاثیریں - خواص۔
 افعی - (اف - عی) [ع - ا - مذ] ناک - ایک قسم کا نہایت زہریلا سانپ - کالا سانپ
 افعی سیرت - سانپ کی خصلت والا میوڑی اور ضرر رساں شخص
 افغان - (اف - فان) [ف - ا - مذ] (۱) فریاد افغان (۲) پشیمان - افغانستان
 اور سابق صورت سرحد کا رہنے والا - جمع : افغانان
 افق - (اف - ق) [ع - ا - مذ] (۱) وہ جگہ جہاں زمین و آسمان ملے ہوئے دکھائی دیتے
 ہیں - آسمان کا کنارہ - جمع : افاق
 افقر - (اف - قر) [ع - صف] بہت غریب - نہایت محتاج -
 افقی - (اف - قی) [ع - صف] (۱) افق سے متعلق - افق کے قریب (۲) افق کے
 متوازی (۲) چپٹا - مسطح۔
 افکار - (اف - کار) [ع - ا - مذ] فکر کی جمع (۱) فکریں - تردوات - پریشانیاں
 (۲) شعر کا کلام - اشعار۔
 افکار عالیہ (۱) بلند خیالات (۲) بلند تہ اشعار۔
 افکار - (اف - کار) [ف - صف] زخمی - مجروح - گھائل۔
 افکن - (اف - کن) [ف - صف] ڈالنے والا - گرا دینے والا - پھلانے والا۔
 (مرکبات میں آتا ہے) جیسے شیر افکن۔
 افگندہ - (اف - گندہ) [ف - صف] (۱) گرا ہوا (۲) عاجز - منکسر۔
 افلاس - (اف - لاس) [ع - ا - مذ] غفلتی - تنگ دستی - غریبی - ناداری - فلاکت۔
 افلاطون - (اف - لاطون) [ی - ا - مذ] (۱) نہایت چوڑے چکلے سیدھا شخص
 (۲) یونان کے ایک بہت بڑے حکیم کا نام جو بقراط کا شاگرد اور ارسطو کا
 استاد تھا۔
 افلاطون کا سالہ - زور آور کارشنہ دار - مغرور گھمنڈی جنگل۔
 افلاطون کا سالہ بنا پھرنے سے [مٹل] خواہ مخواہ گھڑوں کو ڈرانا پھرنے سے
 بڑا منکر ہے۔ اپنی عقل پر بڑا مغرور ہے۔
 افلاک - (اف - لاک) [ع - ا - مذ] فلک کی جمع - آسمان - گرووں - چرخ۔

افواج - (اف - واج) [ف - امٹ] فوج کی جمع - فوجیں - بہت سے لشکر۔
 افواہ - (اف - واہ) [ع - ا - مذ] بازاری خبر - بے اصل بات - آڑی خبر - شنبہ
 خبریں - گپ (عربی میں مذکر ہے اردو میں مؤنث مستعمل ہے)
 افواہ اڑانا - بے اصل بات شہور کرنا - جھوٹی خبر شہور کرنا۔
 افوہ - (اف - فوہ) [ا - ر] تعجب - تراسف یا کثرت درد کے اظہار کے لیے
 زبان سے نکلنے والی آواز۔
 افوہ سے تیری فیمل باری - (مماورہ) تو تو بڑا مکار ہے۔
 افواہ - افواہ کے طور پر۔
 افہام - (اف - ہام) [ف - امٹ] فہم کی جمع - عقلیں سمجھیں۔
 افہام - (اف - ہام) [ع - ا - مذ] سمجھانا۔
 افہم - (افہم) [ا - ر - امٹ] افیون مسنونہ زہری اور شیشلی چیز جو پوست کے
 رس کو منجمد کر کے بنائی جاتی ہے۔
 افہم کھانے امیر باکھانے فیروز [مٹل] افیوی آدمی از خود رفتہ اور بے کا
 ہو جاتا ہے۔ اس لیے افہم امیر بافیوزی کہا سکتا ہے۔
 افیمی - (افیمی) [ا - ر - امٹ] (۱) افیون کا عادی۔
 افیمین - (اف - نی - من) [ا - ر - امٹ] (۱) وہ عورت جو افیون کا نشہ کرے۔
 افیمی نہیں منزل سے پہچانا جاتا ہے۔ [مٹل] افیمی کی پہچان بہت دور سے
 ہو جاتی ہے۔ فہمی کی صورت ہی الگ ہوتی ہے۔
 افیون - (اف - یون) [ع - ا - مٹ] افہم - تریاک۔
 افیون مینا - افیون کو پانی میں گھول کر پینا۔
 افیون چڑھنا - افہم کے نشے کا زور ہونا۔
 افیون دینا - نسخے چرن کو افیون کھلانا۔
 افیون کا چوکا - افیون کا میل اور فشنہ جو گھولنے کے بعد رہ جاتا ہے۔
 افیون کا گھولا - پانی میں کھلی ہوئی افیون۔
 افیون کی بینک - افیون کا نشہ۔
 افیون کھلنا (گھولنا) - افیون گھول کر پینے کے لیے تیار کرنا۔
 افیونی - (اف - یونی) [ع - ف - ا - مذ] افیمی - افیون کا عادی۔
 افیونی جنونی - افیونی پاگل سا ہونا ہے۔

ا - ق

اقادیمہ - (اق - ا - دی - مر) [انگریزی لفظ اکیڈمی (Academy) کا عرب
 امٹ] علم و ادب کو ترقی دینے والی اکہم - اکاڈمی۔
 اقارب - (اق - راب) [ع - ا - مذ] اقرب کی جمع - رشتہ دار - اعزاء - اقربا۔
 اقالہ - (اق - ا - لہ) [ع - ا - مذ] (۱) بیج کو ستر کرنا - معانی چاہنا۔
 اقاہیم - (اق - ہیم) [ع - ا - مٹ] اقیہم کی جمع - ممالک سلطنتیں۔
 اقامت - (اق - امت) [ع - ا - مٹ] (۱) اقامت - خزار سکون (۲) وطن - مسکن
 (۳) تکبیر نماز باجماعت۔
 اقامت کرنا - پھرنے والا - تہم کرنے والا۔
 اقاہیم - (اق - ہیم) [ع - ا - مذ] اقیہم کی جمع (۱) اصل - بنیادیں (۲) مقدس

اقادیمہ (۱) بلند خیالات (۲) بلند تہ اشعار۔
 افکار - (اف - کار) [ف - صف] زخمی - مجروح - گھائل۔
 افکن - (اف - کن) [ف - صف] ڈالنے والا - گرا دینے والا - پھلانے والا۔
 (مرکبات میں آتا ہے) جیسے شیر افکن۔
 افگندہ - (اف - گندہ) [ف - صف] (۱) گرا ہوا (۲) عاجز - منکسر۔
 افلاس - (اف - لاس) [ع - ا - مذ] غفلتی - تنگ دستی - غریبی - ناداری - فلاکت۔
 افلاطون - (اف - لاطون) [ی - ا - مذ] (۱) نہایت چوڑے چکلے سیدھا شخص
 (۲) یونان کے ایک بہت بڑے حکیم کا نام جو بقراط کا شاگرد اور ارسطو کا
 استاد تھا۔
 افلاطون کا سالہ - زور آور کارشنہ دار - مغرور گھمنڈی جنگل۔
 افلاطون کا سالہ بنا پھرنے سے [مٹل] خواہ مخواہ گھڑوں کو ڈرانا پھرنے سے
 بڑا منکر ہے۔ اپنی عقل پر بڑا مغرور ہے۔
 افلاک - (اف - لاک) [ع - ا - مذ] فلک کی جمع - آسمان - گرووں - چرخ۔

تشلیٹ کے افراد۔

اقبال - (اق۔ بال) (ع۔ ا۔ ند) (۱) خوش شمتی، عروج، خوشحالی، ادبار کی ضد

(۲) زمانے کا موافق ہونا، اقرار۔ اعتراف، تسلیم (۳) عالم اسلام کے مشہور مفکر و شاعر علامہ اقبال کا نام اور تخلص۔

اقبال بلند ہونا۔ (معاورہ) اقبال کا الراج ہونا خوش نصیبی ترقی پر ہونا۔

اقبال مجرم۔ مجرم کا اقرار، مجرم ہونے کا اعتراف۔

اقبال چکنا۔ دولت اور مرتبے میں ترقی ہونا۔ دولت اور مرتبہ حاصل ہونا نصیب ہوا ہونا۔

اقبال دعویٰ۔ مخالف کے دعوے کو تسلیم کرنا۔

اقبال دعویٰ داخل کرنا۔ حاکم کے رو برو کسی کے دعویٰ کا تحریری اقرار کرنا۔

اقبال کرنا۔ قبول کرنا۔ اقرار کرنا۔ اعتراف کرنا۔

اقبال مند۔ خوش شمتت۔ صاحب نصیب۔ بھاگوان۔

اقبال مندی۔ خوش نصیبی۔ طالع دہری۔

اقبالی۔ (اق۔ با۔ لی) (ع۔ صف) اقبال کرنے والا۔ مان لینے والا جس نے اپنے کروت کا اعتراف کر لیا ہو۔

اقبالیات۔ (اق۔ با۔ ل۔ یات) (ا۔ امث) حکیم الامت علامہ اقبال کے نظریات اور ان سے متعلق لٹریچر۔

اقباس۔ (اق۔ بت۔ باس) (ع۔ ا۔ ند) (۱) چھانٹنا، چھیننا۔ اخذ کرنا (۲)

چھینا ہوا کلام (۳) روشنی لینا۔ جمع : اقباسات۔

اقتدار۔ (اق۔ بت۔ دار) (ع۔ ا۔ ند) (۱) نیرو، مقدرت، طاقت۔ بڑائی۔

شان و شوکت (۲) اختیار، حکومت۔ مرتبہ۔

اقتدار اعلیٰ۔ ملک کا سب سے بڑا اختیار۔

اقتدار جائز۔ وہ اختیار جو قانوناً درست ہو۔

اقتضائے۔ (اق۔ نت۔ ران) (ع۔ ا۔ ند) [نزدیک ہونا۔ پاس ہونا۔ نزدیکی۔

اقتضا و۔ (اق۔ بت۔ صاد) (ع۔ ا۔ ند) میانہ روی۔ کفایت شناسی۔ جتدل سے کام لینا۔

اقتصادی۔ (اق۔ بت۔ صا۔ وی) (ع۔ صف) اقتصاد سے متعلق۔ مالی معاشی۔

اقتصادیات۔ (اق۔ بت۔ صا۔ یات) (ع۔ ا۔ امث) معاشیات۔ وہ علم جس میں دولت کی پیدائش اور تقسیم سے بحث کی جاتی ہے۔

اقتضا۔ (اق۔ بت۔ ضا) (ع۔ ا۔ ند) (۱) خواہش کرنا۔ چاہنا (۲) تقاضا۔

لازمہ۔ ضرورت۔

اقتدار۔ (اق۔ دار) (ع۔ ا۔ امث) قدر کی جمع۔ قدریں۔

اقدام۔ (اق۔ دام) (ع۔ ا۔ ند) قدم کی جمع۔

اقدام۔ (اق۔ دام) (ع۔ ا۔ ند) (۱) قدم بڑھانا۔ آگے جانا۔ پیش قدمی کرنا (۲)

اقدام عمل (۳) ارادہ۔ قصد۔ جمع : اقدامات

اقدام خود کشی۔ اپنے آپ کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرنا۔

اقدام قتل۔ کسی کے مار ڈالنے کا قصد کرنا۔

اقدام قتل عمد۔ جان بوجھ کر کسی کے قتل کرنے کا ارادہ کرنا۔

اقدس۔ (اق۔ دس) (ع۔ صف) بہت پاک۔ اطہر۔

اقرار۔ (اق۔ رار) (ع۔ اسن) مان۔ ہامی۔ قبول منظور۔ قول قرار۔ عمدہ و پیمانہ وعدہ کرنا۔

اقرار مجرم۔ اصل مجرم۔ [پیش] مجرم کا مان لینا اس کی سختی کو کم کرنا ہے۔

اقرار سے پھرتا۔ وعدہ کر کے اٹکا کرنا۔

اقرار صالح۔ (۱) صحیح اقرار (۲) حلفی بیان۔ عدالت میں وہ بیان جو یہ کہہ کر کہ ”سچ کہوں گا“ دیا جاتا ہے۔

اقرار کا سچا۔ قول کا پورا۔ وعدہ وفا کرنے والا۔

اقرار کرنا۔ قبول کرنا۔ ماننا۔ منظور کرنا۔ وعدہ کرنا۔

اقرار لینا۔ وعدہ لینا۔ عہد لینا۔

اقرار مدار۔ عہد و پیمانہ۔ قول و قرار۔

اقرار نامہ۔ (۱) اقرار کی تحریر (۲) وہ دستاویز جس میں کسی بات کا وعدہ لکھا ہو۔

اقراری۔ (اق۔ ری) (ع۔ صف) اقبالی۔ اعتراف کرنے والا۔

اقرآن۔ (اق۔ ران) (ع۔ ا۔ ند) (۱) قرآن کی جمع۔ پاس کے لوگ ہم عصر ہو گئے

معاصرین (۲) قرآن کی جمع۔ زمانے

اقریب۔ (اق۔ رب) (ع۔ صف) بہت نزدیک۔ جمع : اقرباب۔ اقربا۔

اقربا۔ (اق۔ ربا) (ع۔ ا۔ ند) [نزدیک کی جمع۔ قریب کے رشتہ دار۔ بھائی بند۔

انفار۔ اپنے۔ بچنے۔ اعزہ۔

اقساط۔ (اق۔ ساط) (ع۔ ا۔ ند) [بمٹ] قسط کی جمع۔ قسطیں۔ بکڑے

حصے۔ اجزا۔

اقسام۔ (اق۔ سام) (ع۔ ا۔ امث) قسم کی جمع۔ قیاس۔ طرحیں۔ انواع۔

اقسوس۔ (اق۔ سوس) [بیر۔ ا۔ ند] ایک خاردار درخت۔ ایک بوٹی۔

اقصی۔ (اق۔ صا) (ع۔ صف) بہت دور۔ بیت المقدس۔

اقطاب۔ (اق۔ طاب) (ع۔ ا۔ ند) قطب کی جمع۔

اقطار۔ (اق۔ طار) (ع۔ ا۔ ند) قطر کی جمع۔ کنارے۔

اقطاع۔ (اق۔ طاع) (ع۔ ا۔ ند) قطع کی جمع۔ بکڑے۔ قطعے۔

اقل۔ (اق۔ قل) (ع۔ صف) بہت گھٹا۔

اقل درجہ۔ کم سے کم۔

اقل قبیل۔ گھٹا سے گھٹا بہت گھٹا۔ ذلیل ترین۔

اقلیت۔ (اق۔ قل۔ لی۔ بیت) (ع۔ ا۔ امث) (۱) گھٹا ہونا (۲) کم تعداد

(۳) کسی ملک میں کوئی خاص گروہ جس کی تعداد دوسروں سے کم ہو۔

اقلیدس۔ (اق۔ لی۔ دس) (اق۔ لی۔ دس) (۱) گلیڈ بند سہیح معرہ ہندسہ کا

کھولنے والا (۲) ایک یونانی حکیم کا نام جس کے نام سے علم جیومیٹری

کی بنیاد پڑی (۳) اشکال ریاضی اور کھند سے کا علم۔

اقلیم۔ (اق۔ لیم) (ع۔ ا۔ امث) اولایت۔ ملک۔ جمع : اقالیم

اقتدار۔ (اق۔ مار) (ع۔ ا۔ ند) [نزدیک کی جمع (۱) بہت سے چاند (۲) بکر اول چاندنی میں سیر کرنا۔ روشن کرنا۔

اقتشہ۔ (اق۔ تم۔ شد) (ع۔ ا۔ ند) [نزدیک کی جمع۔ یونیاں۔ شینے کے پڑے۔

اقتنوم۔ (اق۔ نوم) (ع۔ ا۔ ند) (۱) ہر چیز کی اصل بنیاد (۲) دین میں جسی خدا کا ہر چیز (باپ۔ بیٹے اور روح القدس میں سے ہر ایک کو اقنوم کہتے ہیں

اک نظر دیکھنا۔ مخموری دیر دیکھنا
 اک نہ اک طرح۔ اک نہ اک صورت سے کسی طرح۔ کسی تدبیر سے۔
 اکا۔ (اک۔ کا) [۵-۱-اند] ایک گھوڑے کی گاڑی (۲) ایک منتر کا
 زبور جس میں نکتہ چکر کرنا زبور بانہٹے ہیں (۳) شمعان جس میں ایک
 بتی جلائی جاتی ہے (۴) ایک بھاری مندر جسے پہلوان اٹھاتے ہیں (۵)
 صحفہ کا ایک ورق یا تاش کا وہ پتہ جس میں ایک ہونی جو (۶) زمانہ شاہی
 میں وہ عہد پورا جو اپنے ماتحتوں کو بہرہ چوکی تقسیم کرنا تھا [صف] (۷)
 اکیلا۔ تنہا (۸) ٹینا۔ لٹائی۔ بے نظیر۔

اک

جمع ، اناہیم
 اقوال۔ (رق۔ ۱۰) [ع۔ ۱-اند] اعراب کی تبدیلی سے فائے کا بدل جانا جو کہ علم نامیہ
 کا ایک عیب ہے۔
 اقوال۔ (اق۔ وال) [ع۔ ۱-اند] قول کی جمع۔ باتیں۔ مقولے۔
 اقوام۔ (اق۔ وام) [ع۔ ۱-اند] قوم کی جمع۔ توہیں۔ گروہ۔ مختلف ملکوں کے
 باشندے۔

اک۔ [ہ۔ صف] ایک کا مخفف [ف] ایک

اک اکیلا۔ تنہا۔
 اک بات کی بات۔ (محاورہ) بہت نسیل مدت۔ دم بھر۔
 اک بار۔ (۱) ایک مرتبہ (۲) دفعتاً۔ اچانک۔ یکایک۔ بے تامل۔
 اک بارگی۔ (۱) دفعتاً۔ اچانک۔ ناگہان (۲) ایک دم۔ اٹھا۔ (کبارگی۔ زیادہ صحیح)
 اک بولیا۔ وہ دور وازہ جو ایک ہی کواڑ کا ہو۔
 اک پیچا۔ (۱) ایک ترچی پچڑی جو بانکے لوگ بانہٹتے ہیں (۲) صرف ایک
 پیچ کا پھون۔
 اک تارا۔ (۱) ایک منتر کا بار ایک کپڑا (۲) ایک تار کا تہنورا۔
 اک تالا۔ طیلے کی ایک گنت۔
 اک ترا۔ وہ بخارجو ایک روز بیچ آئے۔
 اک جا۔ ایک جگہ۔ اٹھا۔ (یکجا۔ فیصح)
 اک جہان۔ پوری دنیا۔ سارا جہان۔
 اک چنت۔ ایک بات پر قائم رہنے والا (۲) اکٹھے مل کر۔ ایک دل ہو کر۔
 اک چیز ہونا۔ (محاورہ) بگنا ہونا۔ نایاب ہونا۔
 اک خدائی۔ ساری دنیا۔ تمام لوگ۔ بہت لوگ۔
 اک درا۔ ایک درکا والا۔
 اک دل ہونا۔ (محاورہ) منفق ہونا۔
 اک دم۔ دفعتاً۔ اچانک۔ اک بارگی۔
 اک دن۔ کسی دن۔ عنقریب۔
 اک ذرا۔ تھوڑا سا۔ کچھ۔ ذرا۔
 اک ڈال۔ وہ شے جو پوری ایک ہی چیز کی ہوتی ہو اور اس میں جوڑ نہ ہو (۲) یکساں۔
 اک رچی۔ جہنم کے دوڑن رخ ایک جیسے نہ ہوں۔ یک طرفی۔
 اک سار۔ ایک قسم کے۔ یکساں۔ برابر۔ ہموار۔
 اک شو ہونا۔ (محاورہ) ہلکتی ہونا۔ جھگڑے کا فیصلہ ہونا۔
 اک طرف۔ چھوڑو اس کو۔ اس کا ذکر نہ کرو۔
 اک عمر۔ بہت عرصہ۔ بہت مدت۔
 اک گو نہ۔ کسی قدر تھوڑا سا۔
 اک گنت۔ پورے کا پورا۔ (۲) فوراً۔ صحیح۔ یکجہت۔
 اک لڑا۔ اک لڑی والا لڑا۔
 اک منزل۔ ایک منزل والا مکان۔

اکاؤکا۔ اکیلا۔ اکیلا۔ کوئی کوئی۔ ایک آدھ۔ بہت کم۔ خال خال۔
 اکابر۔ (ا۔ اک۔ بر) [ع۔ صف] اکبر کی جمع۔ بڑے لوگ۔ مقتدر آدمی۔
 اکاؤ۔ (ا۔ کاؤ) [ق۔ صف] ایک۔
 اکاؤٹی۔ (ا۔ کا۔ وٹی) [۵-۱-امث] ہر مندی میں کی لیا رہوں تاریخ۔
 اکادمی۔ (ا۔ اک۔ دو۔ می) [معرب۔ ا۔ امث] دیکھے اکیڑی۔
 اکاؤزیب۔ (ا۔ اک۔ ذیب) [ع۔ ۱-امث] کذب کی جمع۔ جھوٹی باتیں۔
 اکارت۔ (ا۔ اک۔ رت) [ہ۔ صف] بے فائدہ۔ لاف حاصل۔ صنایع۔ برباد
 اکارت جانا۔ صنایع ہونا۔ براب جانا۔ بے فائدہ کرنا۔
 اکاس۔ (ا۔ کاس) [ق۔ ۱-اند] آکاش۔ آسمان۔
 اکاس سیل۔ امر سیل۔ وہ سیل جو بغیر جڑ کے درختوں پر پھیل جاتی ہے۔ بچھے
 اقبیتون۔
 اکاسرہ۔ (ا۔ کاس۔ ر) [ع۔ ۱-اند] کسری کی جمع۔ قدم شاہان ایران کا لقب۔
 اکاسی۔ (ا۔ کاسی) [ہ۔ صف] اسی اور ایک۔ اسی شے بعد کا عدد۔
 اکال۔ (ا۔ کال) [۵-۱-اند] بے وقت (۲) کال۔ خشک سالی۔
 گرائی (۳) نہ مرنے والا۔
 اکالی۔ (ا۔ کالی) [۵-۱-اند] (۱) سکھوں کا ایک فرقہ (۲) اس فرقے کا آدمی۔
 اکاٹوسے۔ (ا۔ کان۔ وے) [ہ۔ صف] ٹوٹے اور ایک۔ ٹوٹے کے بعد کا عدد۔
 اکاون۔ (ا۔ کاون) [ہ۔ صف] پچاس اور ایک۔ پچاس کے بعد کا عدد۔
 اکاؤنٹ (Account) (ا۔ اکا۔ انٹ) [انگ۔ ۱-اند] حساب کتاب۔
 اکاؤنٹنٹ (Accountant) (ا۔ اکا۔ انٹ۔ نٹ) [انگ۔ ۱-اند]
 محاسب حساب کی پڑتال کرنے والا۔ چارج کرنے والا۔
 اکاؤنٹنٹ جنرل (Accountant General) محکمہ
 حساب و کتاب کا اعلیٰ افسر۔
 اکائی۔ (ا۔ کا۔ ای) [۱-۱-امث] واحد۔ ایک (۲) شمار کا پہلا درجہ
 ریاضی میں سے ایک سے ۹ تک ہر سند صد اکائی شمار کیا جاتا ہے۔
 اکبر۔ (اک۔ بر) [ع۔ صف] بہت بڑا۔ جمع ، اکابر۔
 اکبری نورتن۔ اکبر اعظم کے نواح جب کمال وزیر (۱) مرزا عبدالرحیم خان تھاناں۔
 (۲) خان اعظم مرزا عزیز کوکلتاش (۳) عظیم ابراہیم کیلانی (۴) بیضی (۵) ابوالفضل
 (۶) عظیم ہام (۷) نوڈریل (۸) بیریل۔ (۹) راجہ مان سنگھ۔
 اگت۔ (ا۔ گت) [۵-۱-اند] (۱) ذہنی طاقت۔ ادراک۔ ذہانت۔ ذہن
 ذکا (۲) اختراع۔ ایجاد۔ نئی بات۔
 اکتاہیس۔ (اک۔ تاہیس) [ہ۔ صف] چالیس کے بعد کا عدد۔ چالیس اور ایک

اکٹا نا۔ (اک۔ کٹنا) [ہ مص] دل برداشتہ ہونا۔ اچاٹ ہونا۔ بیزار ہونا۔
 ننگ آنا۔
 اگنائی کھماری ناخن سے ہٹی کھوٹے۔ [پیش] سبے دلی سے کام کرنا۔
 طبیعت سے کام نہ کرنا۔
 اکتساب (اک۔ ت۔ ساب) [ع۔ ۱۔ مذ] کمانا۔ ذاتی محنت سے حاصل کرنا۔
 اکتشاف (اک۔ ت۔ شاف) [ع۔ ۱۔ مذ] کسی نامعلوم بات کا دریافت کرنا۔
 اکتشافات (اک۔ ت۔ شاف۔ تات) [ع۔ ۱۔ مذ] اکتشاف کی جمع۔ ایجادات
 معلومات۔ تحقیقات۔
 اکتشافات جدیدہ۔ جدید معلومات۔ نئی تحقیقات۔
 اکتفا (اک۔ ت۔ فا) [ع۔ ۱۔ مذ] کفایت کرنا۔ کافی سمجھنا۔
 اکتفا کرنا۔ کافی ہونا۔ کفایت کرنا۔ بس کرنا۔ قناعت کرنا۔
 اکتوبر۔ (October) (اک۔ تو۔ بر) [انگ۔ ۱۔ مذ] سن عیسوی کے
 دسویں مہینے کا نام۔
 اکتیس۔ (اک۔ تیس) [ہ صفت] تیس اور ایک تیس کے بعد کا عدد۔
 اکتف۔ (اک۔ کٹ) [ہ صفت] (۱) مضبوط اور سخت چیز جو کٹنے کٹے نہ توڑے
 ٹوٹے (۲) یکن۔ کامل۔
 اکٹھا۔ (اک۔ کٹھ۔ ٹھا) [ہ صفت] جمع کیا ہوا۔ ایک جگہ۔ فراہم۔ ایک ساتھ
 اکٹھا کرنا۔ ایک جگہ کرنا۔ جمع کرنا۔
 اکثر۔ (اک۔ تر) [ع۔ صفت] بہت زیادہ [تابع فعل] زیادہ تر۔ بار بار۔
 عموماً۔ عام طور پر۔ کبھی کبھی۔
 اکثر ذاتات۔ بار بار۔ بیشتر۔ ہمیشہ۔
 اکثر کر کے۔ (عماد) بیشتر۔ بار بار۔
 اکثریت (اک۔ ت۔ ری۔ بیت) [ع۔ ۱۔ صفت] (۱) زیادتی۔ کثرت (۲)
 کسی ملک میں وہ گروہ جو تعداد میں دوسروں سے زیادہ ہو۔
 اکرا۔ (اک۔ را) [ہ۔ ۱۔ مذ] (۱) ایک ادنیٰ قسم کا قلعہ جو جانوروں کو کھلایا جانا
 ہے۔ [صفت] (۲) گراں بہنگا۔
 اکرام۔ (اک۔ رام) [ع۔ ۱۔ مذ] (۱) گرم بخشش۔ عطا (۲) عزت۔ بزرگی
 تنظیم و تحریک۔
 اکراہ۔ (اک۔ راہ) [ع۔ ۱۔ مذ] گھن۔ نفرت۔ کراہت۔ ناخوشی۔
 اکرم۔ (اک۔ ریم) [ع۔ صفت] بہت کریم۔ بہت مہربان۔ بہت سخی۔
 بہت بخشنے والا۔
 اکروڑا۔ (اک۔ روڑا) [ہ۔ ۱۔ مذ] وہ سیلی دوا جو چر کے انقطاعِ حمل میں پلاتے
 یا جس سے آمدت کرتے ہیں۔
 اکری۔ (اک۔ ری) [ہ۔ ۱۔ مذ] (۱) بلیں بیچ گرانے کے لیے جو نرم بالوں
 لگا ہوتا ہے۔ اس کے اوپر کاجو نکا جس میں بیج ڈالتے ہیں (۲) [صفت]
 ایک قسم کا پودا یا جھاڑی۔
 اکڑ۔ (اک۔ کڑ) [ہ۔ ۱۔ صفت] (۱) اینٹھ۔ مروڑ۔ بل (۲) گھنڈ۔ غرور (۲) کڑھی
 خود سری۔ بڑبڑاجی۔
 اکڑ باز۔ مغرور۔ گھنڈی۔ شیخی خورا۔
 اکڑ بازی۔ شیخی۔ غرور۔

اکڑائی۔ اینٹھ۔ بدن کی نسون کا درد کی وجہ سے ایک دم کھنچ جانا۔
 اکڑنکڑ۔ اینٹھ تیزی بناؤ۔ گھنڈ۔ آن بان۔
 اکڑ جانا۔ (۱) اینٹھ جانا سخت ہو جانا (۲) کشیدہ خاطر ہو جانا۔ بگڑ بیٹھنا۔
 اکڑوں۔ بالکل۔ غرور۔ گھنڈ۔ شیخی۔
 اکڑ کے چلنا۔ اینٹھ کر چلنا۔ اتر کر چلنا۔ سیدھا بھا کر چلنا۔
 اکڑنکا نسا۔ شیخی نکالنا۔ مار پیٹ کر سیدھا کر دینا۔
 اکڑا۔ (اک۔ ڈا) [ہ۔ ۱۔ صفت] موٹھیوں کی ایک بیماری۔
 اکڑاؤ۔ (اک۔ ڈاؤ) [ہ۔ ۱۔ مذ] اینٹھ۔ کھنچاؤ۔
 اکڑنا۔ (اک۔ ڈنا) [ہ مص] (۱) سولہ کر سولہ کرنا اور کڑا ہونا (۲) ٹھہرنا۔
 (۳) نسا بھاتی کو ابھارنا (۴) شیخی کرنا۔ گھنڈ دکھانا (۵) ڈھسانی کرنا۔
 (۶) ہٹ کرنا۔ ضد کرنا۔ اڑنا۔
 اکڑنت۔ (اک۔ ڈنت) [ہ۔ ۱۔ صفت] اکڑ۔ غرور۔
 اکڑو (اک۔ ڈو) [ہ صفت] اکڑ دکھانے والا۔ اکڑ باز۔
 اکڑوں (اک۔ ڈوں) [ہ صفت] ایک بھنگ۔ پاؤں کے نلو سے زہن
 پر اور پوجھ پاؤں پر۔
 اکڑوں بیٹھنا۔ نلووں کے بل اس طرح بیٹھنا کہ کھٹنے کھڑے رہیں۔
 اکڑیت (اک۔ ڈیت) [ہ صفت] اکڑ باز۔ اینٹھ بڑھے خاں۔
 اکڑنا۔ (اک۔ ڈنا) [ہ مص] (۱) ابھارنا۔ آمادہ کرنا۔ مشغول دینا (۲)
 بھگانا۔ روشنی تیز کرنے کے لیے چراغ کی مٹی آگے بڑھانا۔
 اکسائز (Excise) (اک۔ سائز) [انگ۔ ۱۔ صفت] چنگی وغیرہ کا محصول
 اکسائز ڈپارٹمنٹ (Excise Department) آبکاری کا محکمہ۔
 اکیپٹ (Expert) (اکس۔ پٹ) [انگ صفت] ماہر۔ مشاق۔
 اکیپورٹ (Export) (اکس۔ پورٹ) [انگ۔ ۱۔ مذ] ملک کا تجارتی
 مال جو باہر بھیجا جائے۔ مال برآمد۔ برآمد۔
 اکسٹرا (Extra) (اکس۔ ٹا) [انگ صفت] نالٹو ضرورت سے نامزد۔
 اکسٹرا اسسٹنٹ کمشنر (Extra Assistant Commissioner)
 زائد مددگار کمشنر۔
 اکسٹھ (اک۔ ٹھ) [ہ صفت] ساٹھ کے بعد کا عدد۔ ساٹھ اور ایک۔
 اکستا۔ (اک۔ کسٹنا) [ہ مص] ابھرتا۔ اٹھنا۔ نمودار ہونا۔ ہٹنا۔ جنبش کرنا۔
 اکسنے نہ دینا۔ (اکس۔ سنے۔ نہ۔ دے۔ نا) [ہ مص] پلنے نہ دینا۔ ابھرنے نہ
 دینا۔ بہتر حالت میں نہ ہونے دینا۔
 اکیسیر۔ (اک۔ سیبر) [ع۔ ۱۔ صفت] (۱) کیمیا۔ وہ شے جو تانے کو سونا اور
 رائے کو چاندی بناوے۔ رسائن (۲) نہایت ٹوٹوڑا۔ لازمی اثر
 کرنے والی دوا (۳) نہایت مخفید۔
 اکیسیرگر۔ کیمیا گر۔ موس۔ اکیسیر بنانے والا۔
 اکشتر۔ (اک۔ شتر) [س۔ ۱۔ مذ] حوت۔ مگر کن تہی۔ لفظ کا وہ کلڑ جو ایک
 بار میں ادا ہو سکے۔ (Syllable)
 اکفا۔ (اک۔ فا) [ع۔ ۱۔ مذ] عیوب تانیہ میں سے ایک عیب۔ فلسفے کا
 حوت روی بدل جانا۔
 اکفر۔ (اک۔ فر) [ع صفت] نہایت کافر۔ سخت کافر۔

اکل - [ع-ا-ذ] کھانا - غذا۔

اکل حلال - حلال کی مزی۔

اکل و شرب - کھانا پینا۔

اکل و شرب حرام ہونا - کھانا پینا حرام ہونا۔

اکل (ا-کل) [ہ صفت] اکیلا نہ ہونا۔

اکل کھرا (ا-کل) سب سے الگ رہنے والا بے مروت۔ دوسروں سے مانوس نہ ہونے والا۔ (۲) بد مزاج۔ تند خو۔

اکل کھرا جگ سے بُرا [امثال] بے مروت دنیا بھر سے بُرا ہے۔

بد مزاج سب سے بُرا ہے۔

اکلا - (ا-کل) [ا-کل] [ہ صفت] اکیلا۔ تنہا۔

اکلا نا - اکتانا کھانا۔ ٹھک جانا۔ تنگ آنا۔

اکلونا - (اک-کونا) [ہ صفت] اپنے ماں باپ کا ایک ہی بیٹا۔

اکلونی - (اک-کونی) [ہ صفت] اکلونا کا مترادف۔ اسی بیٹی۔

اکلیل (اک-لیل) [ع-ا-ذ] تاج وضع۔ جو ایسات کا سر پہنچ۔

اکلیل الملک - ایک دوکان کا نام جو خدا کے کام آتی ہے (ہندی۔ امیرک)

اکمل - (اک-مل) [ع-ا-ذ] بڑا کامل۔ نہایت ماہر۔

اکناف - (اک-ناف) [ع-ا-ذ] کنف کی جمع۔ اطراف۔ طرفیں۔ کنارے۔ سمتیں۔

اکنا بخت (Acknowledgement) (اک-نا-بج-منٹ)

[انگ-امنٹ] رسید اقرارہ۔

انگ - (انگ) [ہ-امنٹ] (۱) ایک کھیل کا نام جو پتے کی طرح ہرے

بغیر صرف ایک کڑی سے کھیلا جاتا ہے (۲) ایک رنگ۔

یک ہمت - یک دل - یک جان (۳) اپنے قول سے نہ پھرنے والا۔

اکو اسی (اک-وا-سی) [ہ-امنٹ] ایک زانو بیٹھا۔ ایک پہلو لیٹنا۔

اکوتا - (اک-کوتا) [ہ-امنٹ] کسی چیز کو بے ناپ جو کچھ قیمت چکا کر خریدیں۔

اکوتا - (اک-کوتا) [ہ-امنٹ] (۱) ایک سوداوی مرض جس میں ہاتھوں اور

پیروں کی جلد پر نئے نئے دانے نکل آتے ہیں اور ان سے رطوبت

نکلتی رہتی ہے۔

اکول - (اک-کول) [ع-صفت] بڑا کھانے والا۔ پلٹو۔ پرخور۔

اکونا - (اک-کونا) [ہ-صفت] (۱) ایک ایک کرتے چٹا ہوا (۲) صاف

اور چٹا ہوا نارج۔ پھٹکا ہوا نارج۔

اکونے - (اک-کونے) [ہ-امنٹ] وہ نسل جو حاملہ عورت کو ہوتی ہے۔

اکھاڑ - (اکھاڑ) [ہ-امنٹ] (۱) اکھاڑنے کا عمل۔ بیچ کنی۔ برابری (۲) کشتی کا ایک داؤ۔

اکھاڑ پھٹاڑ - (۱) درمی برمی (۲) آٹ پلٹ (۳) لگائی بھائی۔ چٹیل۔

غیبت (۴) ادھر کی چیز ادھر اور ادھر کی ادھر کرنا۔

اکھاڑا - (اکھاڑا) [ہ-امنٹ] (۱) وہ جگہ جو کشتی لڑنے اور کشت کرنے

کے لیے بنائی گئی ہو۔ دھل - (۲) سادھوں کی منڈلی (۳) تماشا دکھانے

دالوں یا کانے بجانے والوں کی منڈلی (۴) ناہج رنگ کی محض۔

حیدروں کا جھگٹ۔

اکھاڑا جمنہ - (محاورہ) (۱) کھلاڑیوں کا اکھاڑے میں جمع ہونا (۲) کسی مقام پر بہت سے آدمیوں کا جمع ہونا۔

اکھاڑا گرم ہونا - (محاورہ) زیادہ جمع ہونا۔ مجمع میں رونق ہونا۔

اکھاڑے کا جوان (محاورہ) مضبوط۔ مرد میدان۔ لڑا بھڑا جوان۔

اکھاڑے میں آنا - (محاورہ) مقابلے کے لیے آنا۔

اکھاڑے میں آنا رنا - (محاورہ) لڑانے اور نکلنے کے لیے بھینا۔

اکھاڑنا - (اکھاڑنا) [ہ-صفت] (۱) جڑ سے کھودنا (۲) جڈا کرنا۔ اٹک کرنا۔

(۳) دل برداشتہ کرنا (۴) نکالنا۔ باہر نکالنا۔ کاٹھنا (۵) کسی سے صحبت سے خارج یا بے دخل کرنا (۶) فوجیا کھوسنا۔

اکھڑ - (اکھڑ) [تر] [ہ-صفت] مستزاد ایک۔ ستر کے بعد کا عدد۔

اکھڑا - (اکھڑا) [ہ-صفت] دیکھی اٹھا۔

اکھٹ جانا - (اکھٹ) [جاننا] [ن-صفت] اکھڑ جانا۔

اکھڑا - (اکھڑا) [ہ-صفت] ایک پرت کا ایک پٹ کا۔ ایک نہ کا۔

اکھڑا بدن کا - پینکا جسم۔ ڈیلا پینکا چھیرا جسم۔

اکھڑنا - (اکھڑنا) [ہ-صفت] ناگوار گزارنا۔ بُرا لگنا۔ گمان خاطر گزارنا۔

اکھڑی - (اکھڑی) [ہ-صفت] اکھڑا کی تائیت۔

اکھڑی سواری - ڈولی یا بس میں ایک شخص کا سوار ہونا۔

اکھڑ - (اکھڑ) [تر] سخت مزاج۔ جاہل۔ آجڑ۔ بد نظیر۔ جھگڑا۔ سوسن۔

اکھڑ پن - (اکھڑ پن) [ہ-صفت] آجڑ پن۔ سوسن پن۔ بد نظری۔ سخت مزاجی۔ جہالت۔

اکھڑا اکھڑا - (اکھڑا، اکھڑا) [ہ-صفت] (۱) اپنی جگہ سے الگ (۲)

دور دور۔ الگ الگ (۳) رنجیدہ۔ دل برداشتہ۔

اکھڑا اکھڑا رہنا - دور دور رہنا۔ میل ملاپ نہ رکھنا۔ ناراض رہنا۔

اکھڑنا - (اکھڑنا) [ہ-صفت] (۱) جڑ سے الگ رہنا (۲) حضور کا جوڑے جڈا

ہونا (۳) بیزار اور برداشتہ خاطر ہونا (۴) ٹوٹ جانا۔ سانس کا سلسلہ

آمد و رفت ٹوٹ جانا (۵) گھوڑے کا قدم برابر نہ چڑنا (۶) آواز

کلبے نال اور بے سُر ہو جانا (۷) بھڑک جانا (۸) اُدھڑا جانا (۹)

اُچٹ جانا (۱۰) ٹوٹنا پھوٹنا۔ ڈھسے جانا (۱۱) کھٹنا۔ الگ ہونا (۱۲)

جینہ اٹھنا (۱۳) پیچھے ہٹ جانا (۱۴) کھٹنا گری ہوئی چیز کا باہر نکل آنا۔

اکھڑوانا - (اکھڑوانا) [ہ-صفت] اکھڑنا کا متعدی المقتدی۔

اکھڑی اکھڑی - (اکھڑی، اکھڑی) [ہ-صفت] اکھڑا کی تائیت۔

اکھڑی اکھڑی باتیں - (محاورہ) (۱) دل برداشتگی کے ساتھ گفتگو کرنا۔ یہ لہی

سے باتیں کرنا (۲) اصل بے جوڑ گفتگو کرنا۔

اکھڑی اکھڑی لگاؤٹ - (محاورہ) کبھی کبھی کی محبت۔ غیر منتقل اتحاد۔

اکھڑی محبت۔

اکھڑی گفتگو - (محاورہ) رخصت کی بات چیت۔ بے دلی کی بات چیت

اکھڑی لینا - (۱) بے پردائی کرنا۔ توجہ نہ کرنا (۲) ایسی باتیں کرنا جس

سے رخصت ظاہر ہو۔

اکھل - (اکھل) [س-صفت] تمام رُکَل۔ پورا۔ مکمل۔

آدمی نہ دکھ سہا سکتا ہے نہ عیش و آرام کا مزہ پاسکتا ہے۔

ایکے اگلے - تنہا - اگ - اگ -

ایسے دیکھنے - ایک دو آدمی - یکہ و تنہا -

ایسے دیکھنے کا اللہ بلی - [مثل] تنہا آدمی کا خدا ہی مددگار ہوتا ہے۔

ایسے چلیے نہ باٹ جھاڑ بیٹھے کھاٹ - [مثل] ایسے سفر نہ کرنا چاہئے

اور چار پائی کو جھاڑ کر بیٹھنا چاہئے۔

اگیلنا - (اگیل - نا) [ہ - مصل] (۱) اوجھڑنا چھیننا - بغرض سے پوست اگ کرنا

(۲) بٹے ہونے دھاگے کا بل نکالنا۔

اگیسی - (اگے - لی) [ہ - مصل] تنہا - اگیلا کی تائینٹ

اگیسی تو لکڑی بھی نہیں جلتی - [مثل] تنہا آدمی سے کوئی کام نہیں ہو سکتا۔

اگیلی جان - تنہا جس کا کوئی شریک اور ساتھی نہ ہو۔

اگ

اگار - (اگا - ر) [ہ - ا - مذ] (۱) اگال (۲) آہستہ آہستہ پختہ کر کے اگھا ہونے والا

پانی (۲) کپڑا رنگنے پر بچا ہوا پانی جو پھینک دیا جاتا ہے۔

اگارنا - (اگا - رنا) [ہ - مصل] کنوؤں صاف کرنا - کنوؤں کی مٹی نکالنا۔

اگاڑ - (اگاڑ - ٹ) [ہ - مصل] حقہ کی لنگائی، مہتابی - دھتیکلی کے سر سے پر

مٹی ہوتی تیلی لکڑی۔

اگاڑا - (اگاڑا - ٹ) [ہ - ا - مذ] (۱) کچھارہ - ترانی (۲) مسافر کا وہ سامان جو

پہلے سے آگے کے پڑا ہو اور بھیج دیا جاتا ہے۔ پیش خیمہ۔

اگاڑی - (اگاڑی - ٹی) [ہ - ا - مصل] (۱) آگے کا حصہ (۲) آگے کھٹے یا کرنے

کا سامنے کا حصہ - گھوڑے کے اگلے بڑوں کی دو رساں جو دائیں بائیں دو

کھنڈیوں سے باندھی جاتی ہیں (۳) [تاریخ فعل] آگے آگے سامنے۔

اگال - (اگال - ٹ) [ہ - ا - مذ] (۱) ٹیک - بان کا چھوک (۲) اگلی ہوتی چیز۔

اگالداں - ٹیک داں - خٹو کھٹے کا ترنن۔

اگانا - (اگانا - نا) [ہ - مصل] (۱) جانا - بد کرنا (۲) روشن کرنا - ظاہر کرنا۔

اگانا - (اگانا - نا) [ہ - مصل] (۱) وصول کرنا - حاصل کرنا - لوگوں سے ان کے

وعدے کے مطابق غلہ یا روپیہ اگھا کرنا۔

اگاہی - (اگاہی - سی) [ہ - ا - مصل] (۱) مختصت لوگوں سے ان کے وعدے کے

مطابق غلہ یا روپیہ کی وصولی - روپیہ وصول کرنے کا کام (۲) وصول کیا ہوا

روپیہ بیسہ (۳) زمین کا لگان (۴) ایک قسم کے ڈیے کا لین دین جس میں

ساہوکار روپیہ دے کر سمنہ واریا ماہوار اس وقت تک وصول کرتا ہے

جب تک سود و روٹو رقم وصول نہ ہو جائے۔

اگت - (اگت - ق) [ہ - مصل] حالت۔

اگتیاچی - (اگتیاچی - جی) [ہ - ا - مصل] غصے کی حالت میں طعنے دینا

اور اپنے احسانات جتاننا۔

اگتھا - (اگتھا - نا) [ہ - مصل] (۱) غصے کی حالت میں طعنے دینا اور اپنے

احسانات جتاننا (۲) جھڈا کسی کے عیب کھول دینا (۳) بے جا

اگھل - (اگھل - ہ) [ہ - ا - مذ] دیکھنے اگھلی۔

اگھلی - (اگھلی - لی) [ہ - ا - مصل] لکڑی کا ایک برتن جس میں دھان وغیرہ ڈال کر

کونٹے ہیں تاکہ جھلکا اگھل ہو جائے۔

اگھلی میں سرد پانڈو گھمکوں (موسلوں) کا کپڑا [مثل] جب کوئی خطرے

کا کام اپنے ذمے لے لیا تو کسی کے ڈرانے دھمکانے کا کیا ڈر۔

اگھلی میں سرد پانڈو (عامورہ) کوئی مشکل کام خود اپنے ذمے لینا - اپنے آپ کو

خطرے میں ڈالنا۔

اگھنڈ - (اگھنڈ - ٹ) [س - مصل] جس کے ٹکڑے نہ ہوں - سالمہ پورا (۲) نو عمر بچہ یا

اگھوٹا - (اگھوٹا - ٹ) [ہ - مصل] (۱) مٹی کی کچی جڑ پر

اوپر کا پاٹ گھومتا ہے (۲) لکڑی یا لوسے کا ڈنڈا جس پر چرخی یا

گرازی گھومتی ہے۔

اگھولا - (اگھولا - لا) [ہ - ا - مذ] گتے کی چوٹی - اگولا - گتے کا وہ حصہ جو

پھیکا ہوتا ہے۔

اگھو مکھو - (اگھو مکھو - ٹھو) [ہ - مصل] چراغ کی ٹونک یا تھلے لٹا کر

بچے کے تر پھیرنا - ہندو لوگوں پر بچا کے وقت چھوٹے بچوں کے چہرے

پر اس طرح ہاتھ پھیرتی ہیں اور کہتی جاتی ہیں - اگھو مکھو دیا برکتو جو کوئی

میرے بچے کو کتے اس کی پھوپھوں دونوں آنکھیں۔

اگھیر - (اگھیر - ٹ) [ہ - مصل] پہلو اڑان کی اصطلاح میں زمین سے اٹھانا۔

اگھیر مارنا - (۱) داؤں مارنا بیچ کرنا (۲) مخالفت کرنا۔

اگھیرنا - (اگھیرنا - نا) [ہ - مصل] دیکھنے اگھاڑنا۔

اگلی - (اگلی - کی) [ہ - ا - مصل] تاش کا وہ پتہ جس میں ایک بوٹی ہو - اگلا -

اگے دگے - (اگے - دگے) [ہ - مصل] اگلیے دیکھنے - تنہا تنہا۔

اگید - (اگید - ع) [ہ - مصل] محکم - مضبوط - مستوار - محکم - پائیدار (تائید کے

ساتھ بولتے ہیں)

اکیڈمی - Academy (اگے - ڈی) [انگ - ا - مصل] علم و ادب

کو ترقی دینے والی انجمن - اکادمی - افا دیمہ۔

اکیس - (اکیس - نیس) [ہ - مصل] بیس کے بعد کا عدد - بیس اور ایک۔

اکیس پان کا پترا - شادی میں آری مصحف دکھانے کے بعد اکیس پان کا پترا

دولہا کو تھلاتے ہیں۔

اکیس (ہونا) رہنا - غالب ہونا - غالب رہنا۔

اگیلا - (اگے - لا) [ہ - مصل] (۱) تنہا - (۲) یکتا - لائانی۔

اگیلا پن - اگیلا کی کم کیفیت۔

اگیلا جینا بھڑا نہیں چھوڑ سکتا - [مثل] تنہا آدمی سے بہت سے لوگوں

کے مل کر کرنے کا کام انجام پانا غیر ممکن ہوتا ہے۔

اگیلا حسرتوں کے کہنے کھوٹے [مثل] مصیبت اور پریشانی کی حالت

میں کام کثرت سے اور کام کرنے والا تنہا ہو - تو اس جگہ

ہوتے ہیں۔

اگیلا دیکھنا - تنہا - بغیر ساتھی کے۔

اگیلا دم - (اگے - مذ) اگیلی جان - تنہا - اگیلا۔

اگیلا ہنستا بھلانا نہ رونا - [مثل] اگیلے آدمی سے کوئی بات نہیں بن پتی۔

یانا مناسب بات کو بار بار کہنا۔

اگر۔ (ا۔ گم) [ا۔ امت] باقی کو تیز چلانے اور آگے بڑھانے کی آواز۔
اگر۔ (ا۔ گر) [ا۔ امت] عود ہندی۔ ایک قسم کی لکڑی جو جھلانے سے خوشبو دیتی ہے۔

اگر بی۔ وہ بیٹی جو اگر کی لکڑی پس کر بنائی جاتی ہے۔

اگر دان۔ اگر سوز، وہ طرف جس میں اگر کی بنیاں لگا کر جلاتے ہیں۔

اگر۔ (ا۔ گس) [ف۔ حروف شرط] جو جب، بشرطیکہ، مبادا، بالضرر۔

اگر حیر۔ ہر چند، باوجودیکہ، گوکہ

اگر ماندہ شے ماند شے دیجئے ماند۔ [مثل] (۱) اگر یہی تو ایک رات

دوسری رات تک نہ رہے گی (۲) خورڑی دیر کی روٹی۔

اگر مگر۔ لین و وصل۔ جید و اول۔

اگر مگر کرنا۔ (۱) حجت کرنا۔ جھگڑا کرنا (۲) آگ پھینک کرنا۔ پس پیش کرنا۔

اگر۔ (ا۔ گس) [س۔ صفت] (۱) سمنے۔ آگے (۲) پہلا۔ اولین (۲) [مذ]

آگے کا حصہ۔ سامنے کا حصہ۔

اگر سوچ۔ دُور اندیشی۔ احنیاط۔

اگر دھول دھول۔ (ا۔ گر۔ دھول۔ دھول) [ا۔ امت] (۱) دھولے کی

کی سی آواز (۲) حُصَف [مثلاً آدمی، بدن کا بھاری اور پھینک آدمی۔

اگر نا۔ (اگر نا) [ا۔ امت] کنوئیں کا صاف ہو جانا۔ کنوئیں سے مٹی وغیرہ

کا نکلا جانا۔

اگر وال۔ (اگر۔ وال) [ا۔ امت] بنوں کی ایک ذات۔

اگرئی۔ (اگر۔ ری) [ا۔ امت] (۱) سیاہی مائل۔ صندلی رنگ کا (۲)

[مثلاً] ایک قوم کا نام جو چاروں سے ملتی جلتی ہے (۳) شانیاں

جہلی کی ایک قبیلہ کا نام جس کی وردی اگرئی تھی۔

اگرئی۔ (اگر۔ ری) [ا۔ امت] (۱) ایک قسم کی کھاس (۲) لکڑی یا لوہے کا چھوٹا

ڈنڈا جو کڑکے پلے میں گنڈا لگا کر ڈال دیتے ہیں۔ اس کے ادھر ادھر

کھینچنے پر کواڑ کھینٹے اور بند ہو جاتے ہیں (۳) بڑی بات۔

اگر۔ (اگر۔ ری) [ا۔ امت] جوار باجرے وغیرہ کی بال جس میں دانہ چھاڑ لیا

گیا ہو۔ کھری۔ اکھرا۔

اگر پلٹ۔ (اگر۔ پلٹ) [ا۔ امت] (۱) مٹا کر بے سر پیر کا۔ اول محلوں۔

اگر پھنڈا۔ (اگر۔ پھنڈا) [ا۔ امت] (۱) مٹا کر بے سر پیر کا۔ اول محلوں۔

اگر پھنڈا۔ (اگر۔ پھنڈا) [ا۔ امت] (۱) مٹا کر بے سر پیر کا۔ اول محلوں۔

اگر پھنڈا۔ (اگر۔ پھنڈا) [ا۔ امت] (۱) مٹا کر بے سر پیر کا۔ اول محلوں۔

اگر پھنڈا۔ (اگر۔ پھنڈا) [ا۔ امت] (۱) مٹا کر بے سر پیر کا۔ اول محلوں۔

اگر پھنڈا۔ (اگر۔ پھنڈا) [ا۔ امت] (۱) مٹا کر بے سر پیر کا۔ اول محلوں۔

اگر پھنڈا۔ (اگر۔ پھنڈا) [ا۔ امت] (۱) مٹا کر بے سر پیر کا۔ اول محلوں۔

اگر پھنڈا۔ (اگر۔ پھنڈا) [ا۔ امت] (۱) مٹا کر بے سر پیر کا۔ اول محلوں۔

اگر پھنڈا۔ (اگر۔ پھنڈا) [ا۔ امت] (۱) مٹا کر بے سر پیر کا۔ اول محلوں۔

اگر پھنڈا۔ (اگر۔ پھنڈا) [ا۔ امت] (۱) مٹا کر بے سر پیر کا۔ اول محلوں۔

اگل آنا۔ اگل پڑنا۔ (ا۔ گل۔ آنا، ا۔ گل۔ پڑنا) [ا۔ امت] (۱) اگل ہوئی چیز کا منہ سے باہر آنا (۲) تلوار کا میدان سے باہر نکل پڑنا (۳) دل کی بات کا ظاہر کرنا۔

اگل دینا۔ (۱) کسی چیز کا منہ سے نکال دینا (۲) سچ سچ کہہ دینا (۳) برا بھلا کہنا

اگل نکل کے کھانا۔ (معاذ) بڑی بے ضابطگی سے کوئی چیز کھانا۔

اگلا۔ (اگ۔ لا) [ا۔ صفت] (۱) آگے کا (۲) پہلے کا۔ پہلا (۳) پُرانہ گزشتہ

اگلا بچپلا۔ پہلا اور آخری۔ آئندہ اور گزر چلا ہوا۔ آئندہ۔

اگلا جنم۔ ہندوؤں کے عقیدے میں اعلیٰ پیدا نش۔

اگلا زمانہ۔ گزرا ہوا زمانہ۔ پُرانا زمانہ۔

اگلا کرے کھیلے بر آئے۔ [مثلاً] فسر رٹے کریں اور سزا چھوٹے یا نہیں

اگلا کتنا ہوتا آپ چُپ رہیں۔ [مثلاً] بات کاٹ کر نہ کہنی چاہیئے

پہلا بات تھے دالا جب تک ختم نہ کرے چُپ رہو۔

اگلا لپا دے بہا۔ اب کا لپا آگے لا۔ [مثلاً] (۱) پہلے احسانوں کا

ناشکری کر کے نئے احسان کی امید کرنا (۲) پہلے کیے کام کو مٹا کر

نئے سرے سے دوبارہ کرنا (۳) معمول محنت کرنا کام کا بڑھانا۔

اگلے دفتر کھولنا۔ گزری ہوئی باتیں پھرنا پھلنا شکائیں کرنا۔

اگلے زمانے والے۔ اگلے لوگ۔ (۱) پہلے وقتوں کے لوگ متقدمین

(۲) (مجازاً) بھولے بھالے۔ سادہ لوح۔ بے وقوف۔

اگلے کو گھاس نہ پھیلے کو پانی۔ [مثلاً] نہایت بد انتظامی ہے یہ بہت

گور پڑے ہے۔ پھر بندوبست نہیں۔

اگلے نے کیا پھیلے پر آئی۔ [مثلاً] بڑے نے قصور کیا چھوٹے نے سزا

پائی۔ افسر نے خطا کی مامت ملازم ٹھہرا۔ بزرگوں نے فعلی کی

اولاد کو سزا کھنتی پڑی۔

اگلے ہوئے کھیلے، کھیلے ہوئے پر وہان [مثلاً] آ زمانے ہوئے لوگوں

کو غیر آ زمانے ہوئے لوگوں پر ترجیح دینا معزز آدمی کو معززوں

کے غیر معززوں کو عزت بخشنا۔

اگل کھیل۔ (اگل۔ کھیل) [ا۔ امت] (۱) آگے بھیجے (۲) پس پیش۔

(۳) گھوڑے کی جوڑی بجائے برابر جوڑنے کے آگے بھیجے جوڑنا۔

اگلی تلوار اور بیسوا لگائی خصم کو مار رکھتی ہے [مثلاً] تلوار اور بدکا

بیوی سے ہر وقت جان غم سے میں ہتی ہے۔

اگلنا۔ (اگل۔ نا) [ا۔ امت] (۱) منہ سے باہر نکالنا (۲) فخر کو دینا (۳) ہضم

کیا ہوا مال بے بس ہو کر داپس کرنا (۴) کسی بات کو مہیشا میں نہ

رکھنا (۵) بھید کھول دینا۔

اگلنا۔ اگلنا۔ (اگل۔ نا) [ا۔ امت] (۱) منہ سے نکالنا

(۲) انیال کرنا۔ جرم کو اتار کرنا (۳) ہضم کئے ہوئے مال کو نکالنا۔

اگلے تو اندھا کھائے تو کوڑھی۔ [مثلاً] مشورہ ہے کہ اگر سنا پھیر نہ

کو، اگل دے تو اندھا اور کھا جائے تو کوڑھی ہو جاتا ہے نہ چھوڑے

بنے نہ کھائے بنے۔ کرنا نہ کرنا دونوں صورتوں کا نام ممکن ہونا۔

اگم۔ (اگم۔ گم) [ا۔ امت] (۱) عاقبت (۲) آئندہ زمانے کی باتیں جو جو ہم سے

معلوم کی جائیں۔ علم غیب۔

اگنٹو۔ (Executive) اگنٹو۔ (اگنٹو) [اگنٹو] [اگنٹو] [اگنٹو]

اگنٹو۔ (Exhibition) اگنٹو۔ (اگنٹو) [اگنٹو] [اگنٹو]

اگنٹو۔ (Examiner) اگنٹو۔ (اگنٹو) [اگنٹو] [اگنٹو]

اگنٹو۔ (August) اگنٹو۔ (اگنٹو) [اگنٹو] [اگنٹو]

اگنٹو۔ (اگنٹو) [اگنٹو] [اگنٹو] [اگنٹو]

اگنٹو۔ (اگنٹو) [اگنٹو] [اگنٹو] [اگنٹو]

اگنٹو۔ (اگنٹو) [اگنٹو] [اگنٹو] [اگنٹو]

اگنٹو۔ (اگنٹو) [اگنٹو] [اگنٹو] [اگنٹو]

دیوتاؤں کے بوجھنے کے لیے اگ جلا کر اس میں خوشبوئیں میوہ جات
گھی وغیرہ ڈال کر ٹھیکنا۔
اگیانا۔ (اگ۔ یا۔ نا) [ہ۔ مص] دھات کے برتنوں کو پاک کرنے کی غرض سے
گرم کرنا۔
اگیانی۔ (ہ۔ صفت) بے علم۔ نادان بے سمجھ۔ جاہل۔
اگیتنا۔ (ہ۔ صفت) وقت سے پہلے آگے گئے والا۔
اگیرا۔ (ہ۔ مذ) آگے کا (۲) پہلی پولی جو کاشتکار کو دی جاتی ہے۔

ا۔ ل

اَل۔ (ع۔ تعریف) عربی زبان میں وہ اسم اور صفت کے ساتھ آکر اس کے
معنوں میں خصوصیت پیدا کرتا ہے۔

اَلان۔ (ع۔ اجمی) اسی وقت۔
اَلان کماکان۔ (ع۔ فعل) جیسا تھا ویسا ہی ہے، ہنوز روزِ اول است۔
اَللا۔ (ا۔ لا) [ع۔ کلمتہ نسبیہ] ہوشیار ہو۔ خبردار ہو۔
اَللا۔ (ا۔ لا) [ع۔ نکر۔ یکن۔ بجز۔ سوا۔
اَللّٰہِ اَلَّذِیْ نَزَّلَ اَلْذِکْرَیْ۔ شادھر کا نہ ڈھکا۔ مذہب۔
اَللّٰہُ اَلْمَنَّانُ۔ (۱) مگر اللہ۔ کلمہ طیبہ کا جز (۲) ال ذکر مزدگوں کا وظیفہ۔
اَللّٰہُ اَلْمَنَّانُ۔ (۱) مگر جو چاہا اللہ نے (۲) (مجازاً) شاد و نادر کہیں کہیں
اَللّٰہُ۔ (ا۔ ل۔ ب۔ لا) [ا۔ ر۔ مٹ] بُری سے بُری۔ خراب سے خراب
بیز۔ وہاں بمصیبت۔

اَللّٰہُ بَرکَرِیْمٌ۔ [مثل] سارا وبال مُٹا کر دین پر۔
اَللّٰہُ لَیْسَ اَرَقٌ۔ بلائیں لینا بمصیبت نول لینا۔
اَللّٰہُ بِلَالِیْنِ صَحْبِکَ سُرکَالِیْنِ۔ [مثل] جینی چڑھی بانیں کر کے مطلب نکالنا
اَللّٰہُ۔ (ا۔ لا۔ پ۔ لا) [مٹ] آواز کا تار چھاؤ۔ اَللّٰہُ۔ تان۔ سُر۔
اَللّٰہُ۔ (ا۔ لا۔ پ۔ نا) [ہ۔ مص] سُر کھینچنا۔ تان دکھانا۔ گانا۔
اَللّٰہُ مَیْنِیْٹ (Allotment)۔ (ا۔ لا۔ ٹ۔ مینٹ) [اگ۔ مٹ] (۱)
(۱) حصہ مفردہ۔ حصہ مفتوحہ (۲) شوار (۳) نامزدگی۔ تعیین۔ تقسیم۔
اَللّٰہُ۔ (ا۔ لا۔ چا) [ہ۔ مذ] ایک قسم کا مٹائی کپڑا جو ریشم اور سُوت ملا کر بنا یا
جاتا ہے۔ (بن۔ لاجا۔
اَللّٰہُ بَیْگ (۱) ٹھوسٹی کے تماشے میں ایک دُبی تپلی مضحکہ نکل کا نام (۲)
سُرکھا۔ ٹوپلا اور بد قطع شخص۔

اَللّٰہُ۔ (ا۔ لا۔ چا۔ ا۔ لا۔ اجمی) [ہ۔ مٹ] ایک خوشبودار چھوٹے
سے چھل کا نام جس کے دانے خوشبو کے لیے کھانے یا گرم مصالحہ اور
پان وغیرہ میں ڈالتے ہیں۔ اس کی دو قسمیں ہیں۔ بڑی اَللّٰہُ۔ اور
چھوٹی اَللّٰہُ۔
اَللّٰہُ (اَللّٰہُ) دانہ۔ (۱) اَللّٰہُ کے دانوں پر کھاند چڑھی ہوئی مٹھائی (۲)
(کتابیت) کم سن معشوق۔
اَللّٰہُ۔ (ا۔ لا۔ ا) "عیسہ" کا قدیم تلفظ۔
اَللّٰہُ۔ (ا۔ لا) [ہ۔ صفت] پھلے حصے میں بوجھ زیادہ ہونے کے باعث گاڑی

اگم بانہنا۔ آئندہ کا حال بتانا۔
اگم شاستر۔ علم نجوم کی کتاب۔
اگن۔ (اگن) [ہ۔ مذ] (۱) اگنی۔ آگ (۲) ایک چھوٹا سا خوش آواز پرندہ۔
اگن باؤ۔ (۱) گھوڑوں کا ایک مرض جس میں اُن کی کھال اُدھر جاتی ہے
اور روئیں گرجاتے ہیں (۲) گرمی۔ آتشک (۳) بادِ موسم۔
اگن بوٹ۔ آسٹریلوی دُغانی کشتی۔
اگن چڑیا۔ آگ کا کیرا جسے سمندر بھی کہتے ہیں۔
اگن کے پتے کو چوری بنانا۔ (مخاورہ) ٹال مٹول کرنا۔ بہانے کرنا۔
اگن۔ (اگن) [س۔ صفت] اناڑی۔ مورکھ بے ہنر۔ چھوٹے۔ بد سلیقہ۔
اگن۔ (اگن) [ہ۔ مص] ظاہر ہونا۔ نمود پانا۔ پیدا ہونا۔
اگنی۔ (اگنی) [ہ۔ مٹ] آگ۔
اگنی بان۔ وہ تیر جس سے آگ لگتی جاتی تھی۔

اگنی کتڑ۔ (س۔ مٹ) آگ کا تالاب۔ دوزخ (۲) وہ گڑھا جس میں
آگ جلاتی جاتی ہے (۳) آگ وہ الاد (ہندو روایت کے مطابق)
جس میں سے پھتری پیدا ہوتے گئے جنھوں نے بدھت کا خاتمہ کیا۔
اگواکار۔ (اگ۔ سا۔ کار) [ہ۔ مذ] آگے چلنے والا (۲) کھیا پیشوا۔ سردار۔ نامک۔
(۳) راستہ بتانے والا (۴) شادی کا پیغام لانے والا۔
اگواٹا۔ (اگ۔ واٹا) [ہ۔ مذ] مکان کا سامنے والا حصہ بچھوڑے کی ضد۔
اگوانا۔ (اگ۔ وانا) [ہ۔ مص] آگے کرنا۔ سردار مقرر کرنا۔
اگوانی۔ (اگ۔ وانی) [ہ۔ مٹ] (۱) (برسات کی) پیشوائی۔ استنبال (۲)
رہنمائی (۳) اُوپر کا کام کاج کرنے والا۔

اگوٹ۔ (اگوت) [ہ۔ مٹ] روک۔ اوٹ۔ آڑ۔
اگوچر۔ (اگوت۔ چر) [س۔ صفت] خنیز۔ پوشیدہ۔ پُر اسرار۔
اگولا۔ (اگوت۔ لا) [ہ۔ مذ] گئے کا اُوپر کا حصہ جو پھیکا ہوتا ہے۔
اگھاری۔ (اگھا۔ ری) [ہ۔ صفت] لالچی۔ حریص۔
اگھاڑ۔ (اگھا۔ ڈ) [ق] آگے سامنے۔
اگھاڑنا۔ (اگھا۔ ڈنا) [ہ۔ مص] (۱) کھولنا۔ پردہ فاش کرنا۔
اگھانا۔ (اگھانا) [ہ۔ مص] سیر ہونا۔ اچھرنا۔
اگھانی۔ (اگھا۔ ای) [ہ۔ مٹ] سیری۔ آسودگی۔
اگھن۔ (اگھن) [ہ۔ مذ] ہندی سال کا نواں مہینہ گھرج تقریباً
نصف نومبر سے نصف دسمبر تک رہتا ہے۔
اگھور۔ (اگھور) [س۔ صفت] (۱) خوفناک۔ سبیت ناک (۲) [مذ] شیوجی کا
ایک لقب

اگھوٹیفٹ۔ ہندو سادھوؤں کا ایک فرقہ جو رتوجی کا بیماری ہے اور پانچانہ
پیشاب اور کھانے پینے کی چیزوں میں تمیز نہیں کرتا۔
اگھوری۔ (اگھوری) [ہ۔ صفت] اگھوٹیفٹ کا فرقہ (۲) لالچی۔ پیٹو۔
اگیا بیتال۔ (اگ۔ یا۔ بے۔ تال) [ہ۔ مذ] غول بیابانی۔ ایک دُغانی مادہ
جو اکثر دل دل پرانے قبرستان یا مگھٹ میں رات کو جلتا ہوا نظر آتا ہے
عام لوگ اسے جھوت پرین خیال کرتے ہیں۔
اگیاری۔ (اگ۔ یا۔ ری) [ہ۔ مٹ] (۱) آگ جلا نا۔ ہون۔ ہوم۔

کا اگلا حصہ اوپر کو اٹھ جانا۔
 الاراسی (ا۔ ل۔ ر۔ س) [د۔ صف] بے پروا بے نکر۔ لا ابالی۔
 الاراسی کا کارخانہ۔ بے پروائی کا کام سب سے نوجوبی کا کارخانہ۔
 الارم (Alarm) (ا۔ ل۔ ر۔ م) [ا۔ نگ۔ ا۔ ند] (۱) خطرے سے آگاہی
 (۲) گھنٹی۔ گھڑی کی جھگانے والی گھنٹی۔
 الارنا (ا۔ ل۔ ر۔ نا) [ہ۔ مص] شادینا۔ پہلو دینا۔ سلا دینا (۲) اچکنا
 الاس (ا۔ ل۔ اس) [س۔ ا۔ ند] جوش۔ آئینگی۔ دولہ (۲) پھرتی۔ چالاک۔
 الاسا (ا۔ ل۔ سا) [ق۔ ا۔ ند] دلاسا۔ نسلی۔ نشتی۔
 الاستیک (Elastic) (ا۔ ل۔ اس۔ بک) [ا۔ نگ۔ ا۔ مٹ] چمک والی
 چیز۔ ربڑ کا بنا ہوا جینٹ۔
 الاستنا (ا۔ ل۔ اس۔ نا) [ق۔ مص] جوش میں آنا۔ آنگ پیدا ہونا۔
 الارغ (ا۔ ل۔ رغ) [ع۔ ا۔ مٹ] (۱) چھوٹی کشتی (۲) ڈاک کا گھوڑا۔
 خراب رکش۔
 الارقادیک کا عقارب۔ [ع۔ مٹل] عربیز چھوکی طرح نیش زنی کرتے ہیں۔
 عربیوں سے ہی زیادہ تر تکلیف پہنچتی ہے۔
 الاللا (ا۔ ل۔ لا۔ لا) [ق۔ ا۔ مٹ] دولہ جوڑن۔
 الالی (ا۔ ل۔ لی) [ق۔ ا۔ مٹ] ناز۔ نخرہ۔ ادا
 الامان (ا۔ ل۔ ا۔ مان) [ع] امن چاہنا۔ (۱) پناہ بخانا (۲) [مٹ] امن
 پناہ۔ روم۔
 الامان کہنا۔ (محادہ) پناہ مانگنا۔
 الامر فوق الادب (ع۔ مقولہ) حکم ادب پر فوقیت رکھنا ہے۔
 الامنا (ا۔ ل۔ نا) [ہ۔ مص] چلانا۔ کرنا۔ گلابا ڈکربولنا۔
 الانتظار اشد من الموت [ع۔ مٹل] انتظار کی تکلیف موت سے بھی
 زیادہ ہوتی ہے۔
 الانگنا (ا۔ ل۔ انگنا) [ا۔ ل۔ انگ۔ نا۔ ا۔ ل۔ انگنا] [ہ۔ مص] (۱) پھلانگنا (۲)
 کسی چیز کے اوپر سے اس طرح کو دو جانا کہ اس پر پائون نہڑے (۳)
 چابک سواروں کی اصطلاح میں گھوڑے پر ادا کرنا بڑے چرخنا۔
 الاہنا (ا۔ ل۔ اہنا) [ہ۔ ا۔ ہ۔ ہ] (۱) گھڑی کو کرنا (۲) بدنامی۔ برائی۔ دوش۔
 الاہنا دینا (۱) گھڑ کرنا۔ شوکو کرنا (۲) الزام دینا۔
 الاؤ (ا۔ ل۔ اؤ) [ہ۔ ا۔ ہ۔ ہ] [ا۔ ہ۔ ا۔ ہ۔ ہ]
 الاؤنس (Allowance) (ا۔ ل۔ اؤنس) [ا۔ ہ۔ ا۔ ہ۔ ہ] [ہ۔ ا۔ ہ۔ ہ]
 الباب (ا۔ ل۔ باب) [ع۔ ا۔ مٹ] لیب کی جمع۔ عقیلین (مرکبات
 میں استعمال ہے)
 البنتہ (ا۔ ل۔ بنت۔ ن) [ع۔ نابع نعل] (۱) بے شک۔ ضرور نطعی بے شبہ
 بالیقین (۲) ہاں۔ بہت خوب بہت بتر (۳) مگر۔ الہ۔ لیکن۔
 البرز (ف۔ ہ۔ ا۔ ہ۔ ہ) [ہ۔ ا۔ ہ۔ ہ] (۱) خور۔ گھنڈ (۲) فرق کی پیشی (۳) صدقے
 ال بل (ا۔ ل۔ بل) [ہ۔ ا۔ ہ۔ ہ] (۱) خور۔ گھنڈ (۲) فرق کی پیشی (۳) صدقے
 قربان۔
 ال جاؤں بل جاؤں جلو سے کے وقت مل جاؤں۔ [مٹل] یوں نو
 صدقے زبان جاتے ہیں۔ جان دیتے ہیں لیکن وقت پڑنے پر شکل بھی

نہیں دکھاتے۔

الجم (Album) (ا۔ ل۔ جم) [ا۔ نگ۔ ا۔ ند] تصویروں رکھنے کی باطن۔ مرقع۔
 البیٹ (ا۔ ل۔ بیٹ) [ہ۔ ا۔ مٹ] ابل۔ مرز۔ پیٹ۔ گرہ۔ پیچ۔
 البیلا (ا۔ ل۔ بے۔ لا) [ہ۔ صف] (۱) جوان رعنا۔ بانگا تریچا (۲) بے پردہ۔ آنسو۔
 (۳) اڑنا (۴) سیدھا سادا (۵) مصوم (۶) خوب۔ دلربا۔
 البیلا پین۔ پھیلان۔ بائین۔ اظہر پین۔
 البیلی (ا۔ ل۔ بے۔ لی) [ہ۔ صف] البیلا کی تائیت۔
 البیلی چال۔ مستانہ چال۔ بانگی تریچہ چال۔
 البیسی نے پکائی کھیر دو دھکی جگہ ڈالائیز [مٹل] بے ڈھنگے بننے کے کام
 بگاڑ دیا۔ کچھ کا کچھ کر دینا۔
 البیسی وضع۔ بانگی تریچہ وضع۔
 الپاکا (Alpaka) (ا۔ ل۔ پاکا) [ا۔ نگ۔ ا۔ ند] (۱) امریکا کا ایک جانور
 جس کے بال جیسے اور اون کی طرح ملامت ہوتے ہیں (۲) الپاکا کا اون۔
 (۳) ایک کپڑا جو ریشم یا سوت کے ساتھ الپاکا کے اون سے ملا کر بنایا
 جاتا ہے اور اسے الپاکا بھی کہتے ہیں۔
 الپین (ا۔ ل۔ پین) [گھنڈی والی سونی] (پین) (Pin)
 الیناس (ا۔ ل۔ سب۔ پاس) [ع۔ ا۔ ند] (۱) ایک تائیت کے سبب شہ پڑنا (۲)
 ہم شکل ہونا (۳) مشکوک ہونا (۴) ابھام و شبہ۔
 الہجا (ا۔ ل۔ ست۔ جا) [ع۔ ا۔ مٹ] (۱) آرزو۔ تمنا (۲) منت سماجت۔ عاجزی
 (۳) عرض۔ گزارش۔ درخواست۔
 الہجا کرنا۔ منت کرنا۔ بخوشا بد کرنا۔ گزارنا۔ درخواست کرنا۔
 الہجالے جاننا۔ عرض لے جاننا۔ آرزو پیش کرنا۔
 الہزام (ا۔ ل۔ ہ۔ ت۔ زام) [ع۔ ا۔ ہ۔ ا۔ ہ] کسی بات کو لازم کر لینا۔ ضروری قرار
 دے لینا۔ جمع: التزامات۔
 الہفتات (ا۔ ل۔ ہ۔ ف۔ ات) [ع۔ ا۔ مٹ] (۱) ہفت روزہ ہونا (۲) توجہ پڑنی
 رغبت۔ خیال۔ وہجان۔
 الہماس (ا۔ ل۔ ہ۔ م۔ اس) [ع۔ ا۔ ہ۔ ا۔ ہ] [ہ۔ ا۔ ہ۔ ا۔ ہ]
 جمع: التماسات
 الہماسی (ا۔ ل۔ ہ۔ م۔ نی۔ ماسی) [ق۔ ا۔ ہ۔ ا۔ ہ] [ہ۔ ا۔ ہ۔ ا۔ ہ]
 الہتمش (ا۔ ل۔ ہ۔ مٹل) [ت۔ ا۔ ہ۔ ا۔ ہ] [۱] آگے کی فوج۔ برول (۲) خاندان
 غلامان کے بادشاہ شمس الدین کا لقب (جمع: الہتمش)
 الہتمغا (ا۔ ل۔ تم۔ غا) [ت۔ ا۔ ہ۔ ا۔ ہ] [۱] سرخ تھمر (۲) مجازاً فرمان شاہی۔
 (۳) معافی یا جاگیر کی بند۔
 الہنقی (ا۔ ل۔ ہ۔ ن۔ نی) [ہ۔ ا۔ مٹ] ہاتھی کی گردن میں باندھنے کی رمی جس پر
 قیل بان رکاب کی طرح پاؤں رکھتے ہیں۔
 الہنوا (ا۔ ل۔ ہ۔ نا) [ع۔ ا۔ ہ۔ ا۔ ہ] [ہ۔ ا۔ ہ۔ ا۔ ہ] [۱] آلہ پر اٹھا رکھنا۔ مثال دینا (۲)
 ملتی کرنا۔
 الہتاب (ا۔ ل۔ ہ۔ تاب) [ع۔ ا۔ ہ۔ ا۔ ہ] [ہ۔ ا۔ ہ۔ ا۔ ہ]
 الہتاب زائدہ۔ ایک مرض جس میں اندھی آنت سوج جاتی ہے اور اس میں
 سوزش ہوتی ہے۔ (Appendicitis)

التیام (ال - ت - یام) [ع - ۱ - ہند] (۱) زخم بھرنا - تندہست ہونا (۲) دو چیزوں کا باہم مل جانا (۳) میل ملاپ - میل جول -
 التیام پانا - التیام دینا - زخم بھرنا -
 اُلٹ (ا - لٹ) [ہ - صفت] اُلٹا کا امر (۱) جھکس مخالف (۲) ٹیڑھا (۳) پٹا ہوا اوندھا (۴) برگشتہ (۵) خلاف قاعدہ (۶) واپس (۷) تفتیش - خند -
 اُلٹ آنا (محاورہ) پلٹ آنا جہاں سے چلے وہیں آکر کرنا یا واپس آنا -
 اُلٹ پڑنا (محاورہ) واپس ہونا (۲) پلٹ کر حملہ کرنا (۳) بگڑ جانا - غصے ہونا - برہم ہونا (۴) مخالف ہو جانا (۵) اوندھا ہو جانا (۶) خلاف امید نتیجہ برآمد ہونا -
 اُلٹ پلٹ (محاورہ) درہم برہم - اُلٹ سیدھا - اُلٹا پلٹا - بے ترتیب - گڈمڈ -
 اُلٹ پلٹ دینا (محاورہ) بے ترتیب کر دینا - تلے اور پوک دینا - ادھر کا ادھر کر دینا -
 اُلٹ پلٹ کرنا (محاورہ) تلے اور پوک کرنا - درہم برہم کرنا - بے ترتیب کرنا - گڈمڈ کرنا -
 اُلٹ پلٹ ہونا (محاورہ) بے ترتیب ہونا - گڈمڈ ہونا -
 اُلٹ پیچ - اُلٹی سیھی بات - جھکی بات (۲) گردش (۳) پھیل - داؤ پیچ -
 اُلٹ پھیر (۱) اول بدل - پھر پھیر (۲) کمر فریب (۳) دودھو - گالی گلوچ - تنکار -
 اُلٹ پھیریں آجانا (محاورہ) فریب میں آجانا - دھوکا کھا جانا -
 اُلٹ جانا (۱) پلٹ جانا (۲) مدہوش ہو جانا - شرمندہ ہو جانا (۳) موٹا ہو جانا (۴) اوندھا ہو جانا - بیچھے کے رخ پر جانا (۵) مفلس ہو جانا (۶) محروم ہو جانا -
 پھر جانا (۷) گر پڑنا - آ رہنا (۸) بدل جانا - خلاف ہونا - نکر جانا -
 اُلٹ دینا (۱) ادھر سے ادھر کر دینا (۲) اٹھا دینا - (۳) چت کو پٹ کر دینا - (۴) تباہ کر دینا -
 اُلٹ کے جواب دینا (۱) پیام کا جواب لادینا (۲) ترکی بر ترکی جواب دینا -
 اُلٹ کے خبر نہ لینا - کسی کی طرف سے بے خبر ہو جانا - انتہا کی عظمت برتنا -
 اُلٹ کے کروٹ نہ لینا - خبر نہ لینا - انتہا کی عظمت کرنا -
 اُلٹا - (اُل - ٹا) [ہ - صفت] (۱) پٹا ہوا - اوندھا (۲) برعکس (۳) واپس -
 سیدھا کی ضد -
 اُلٹا پانسیا پڑنا (۱) جوئے میں پانسہ غلط پڑنا - مار جانا (۲) معاملہ پٹنے خلاف ہونا - کوشش نہایت کاٹ جانا -
 اُلٹا پلٹا (۱) بے ترتیب - تلے اور پر (۲) اُلٹا سیدھا (۳) بے ڈھنگا - اوندھا برعکس -
 اُلٹا پیلٹی - اول بدل - ادھر کا ادھر کرنا -
 اُلٹا پھر آنا (محاورہ) لوٹ آنا - جاتے جلتے پلٹ پڑنا - بہت جلد مراجعت کرنا -
 اُلٹا پھرنا - (محاورہ) واپس آجانا - ناکام پلٹ آنا - جاتے ہی واپس چلے آنا -
 اُلٹا پھیرنا - (محاورہ) ٹوٹا دینا - واپس کر دینا - فوراً واپس کر دینا -
 اُلٹا توڑا - (محاورہ) نہایت کالا - کالا کو کو - کالا گلوٹا - کالا بھونگا -
 اُلٹا ٹانگنا - (محاورہ) ٹانگیں باندھ کے سر کے بل ٹانگنا - سخت سزا دینا -
 اُلٹا جھٹنا (محاورہ) پیچھے کا اس طرح جھٹکا کہ پہلے پیر نیلیں اور پھر سر -
 اُلٹا جواب دینا - (محاورہ) خلاف توقع جواب دینا - ٹیڑھا جواب دینا -
 اُلٹا چور کو توڑا - (میشل) اپنے کو توڑتے پریشانے کے بجائے
 توڑنے والے کو آنکھیں دکھانا -
 اُلٹا دریا بہنا - (محاورہ) خلاف دستور کوئی بات ہونا - ناممکن کام ہونا -
 اُلٹا (اُلٹے) دم لینا - (محاورہ) نزع کے وقت سانس کا اکھڑ جانا -

اُلٹا دھڑا باندھنا - (محاورہ) برعکس کرنا - خلاف کرنا - اپنی خطا دوسروں کے سر چھوینا -
 اُلٹا زمانہ - (محاورہ) ایسا زمانہ جس میں سیدھی بات دیر طعی اور بُری بات جھلی سبھی جانتے - بُرا زمانہ - کج بگ -
 اُلٹا زمانہ آبا ہے - اُلٹا زمانہ لگا ہے - اُلٹا زمانہ ہے - (محاورہ) بُرا وقت آ گیا ہے -
 اُلٹا سبق پڑھانا - (محاورہ) خلاف بات سکھانا - بھگانا - ورغلانا -
 اُلٹا سیدھا - بے قاعدہ - بے ترتیب - جا بیجا -
 اُلٹا سیدھا جواب دینا - (محاورہ) خلاف جواب دینا - ملامت جواب دینا - نامعقول جواب دینا -
 اُلٹا لٹکانا - (محاورہ) اُلٹا ٹانگنا -
 اُلٹا لیا جھٹنے نہ سیدھا - جہاں کسی بھی طرح کوئی شخص تاہم میں نہ آئے اور نہ قابل ہو تو اس موقع پر بولتے ہیں -
 اُلٹا مزاج - وہ جس پر بات کا اُلٹا اثر پڑے -
 اُلٹا نصیبیا - بُری قسمت - نصیبی -
 اُلٹا لائقہ مارنا - حسرت و افسوس ظاہر کرنا -
 اُلٹے اُمتیرے سے سرمٹا لانا [میشل] بُری وقت کی سزا دینا -
 اُلٹے بانس بریلی کو [میشل] برعکس بات - مخالفت کا کام - بے قاعدہ کام -
 اُلٹے بل کی چوٹی - وہ چوٹی جس کے گوندھنے میں بال پیچھے سے اُپر لائے جاتے ہیں -
 اُلٹے پاؤں پڑنا - آگے بڑھنے کی بجائے پیچھے ہٹنا -
 اُلٹے پاؤں پھیرنا - فوراً واپس ہونا - جلد پلٹ جانا - تڑت لوٹنا -
 اُلٹے پاؤں چلنا - پشت کی طرف چلنا -
 اُلٹے پھر آنا - فوراً پلٹ آنا -
 اُلٹے سر ہو جانا - خوش ہونے کے بجائے ناراض ہو جانا - مفت میں پیچھے پڑ جانا -
 اُلٹے سیدھے - حق نا حق - جا بے جا -
 اُلٹے کانٹے تولنا - کم تولنا - ڈنڈی مارنا -
 اُلٹے گدھے پر چھاننا - پڑنے زلنے میں سزا دینے کا طریقہ - مزہم کا سرمٹا ڈالنا اور گدھے کی دم کی طرف گڑے کے سارے شہر میں گھلتے تھے - نہایت ذلیل و رسوا کرنا -
 اُلٹے ملک کے ہو - احمق ہو - بے وقوف ہو -
 اُلٹے لائقہ کا داؤں کھیل (کرتب) بہت آسان - نہایت سہل -
 اُلٹانا - (اُل - ٹا - نا) [ہ - مصدر] ملا پٹنا - ٹوٹانا - پیچھے پھرنانا (۲) اور کا اور کرنا یا کھنا (۳) پھیرنا - دوسری حالت میں رکھنا -
 اُلٹانا - (اُل - لٹ - نا) [ہ - مصدر] پلٹنا - اوندھا کرنا (۲) اٹھانا - بٹانا (۳) پھرنانا (۴) مدہوش کرنا (۵) نہ دالا کرنا (۶) بدل دینا (۷) گرانانا پچھا پڑنا (۸) آجانا (۹) بار بار کھنا (۱۰) اُنڈ پلٹنا (۱۱) مفلس کر دینا (۱۲) سیدھا کرنا (۱۳) رو کرنا (۱۴) چڑھانا لٹھانا (۱۵) پیچھے سے اُپر کرنا -

اُلٹو اُلٹی - اُلٹ (واں، سس) [ہ۔ ا۔ مٹ] اپنا التزام دوسرے پر رضو پنا میدی
 بات کو لپیٹ دینا۔ اُلٹے کام کرنا۔
 اُلٹی - (اُل - ٹی) [ہ۔ مٹ] اُلٹائی تا نیت (۱) خلاف، مخالف (۲) اُدھی (۳) [مٹ] اتنے
 اُلٹی اُنٹیں نکلے پڑنا۔ لینے کے دینا پڑنا۔ نیکی کا پرلا بد یہی ملنا۔
 اُلٹی اُنٹیں دکھانا۔ بے جا غصہ کرنا، غور سنی تصور کرنا خود ہی دوسرے پر بھرا ہونا۔
 اُلٹی اُلٹی باتیں۔ بے نیکی باتیں۔ اُلٹی نر جی بات جیت۔
 اُلٹی اُلٹی سانس لینا۔ اُلٹی کے دم کھینچنا۔ آخری سانس لینا۔ کھنے کے تریب ہونا
 اُلٹی بات - خلاف بات بے ڈھنگی بات۔
 اُلٹی بیٹی پڑھانا۔ (۱) غلط سبق پڑھانا۔ بھگانا۔ درغلانا (۲) دل چھیر دینا
 برکت نہ کر دینا۔
 اُلٹی پڑے سیدھی پڑے۔ خدا جانے نتیجہ اچھا ہو یا بُرا۔
 اُلٹی بلٹی باتیں۔ بے تریب باتیں بے ڈھنگی باتیں۔
 اُلٹی تقدیر۔ اُلٹی نسیبیا۔ بد قسمتی۔
 اُلٹی مائیں نکلے پڑنا۔ اپنی باتوں سے آپ ہی قابل ہونا۔ چلنے یا کھولنے مصلحت
 مول لینا۔ اپنے داؤں سے خود بچھڑنا۔
 اُلٹی چھری سے حلال کرنا۔ نہایت ظلم کرنا۔ بری زیادتی کرنا۔
 اُلٹی رات کا۔ بے وقوف۔ اُمن۔
 اُلٹی رسم۔ اُلٹی ریت۔ موقع محل کے خلاف رسم۔ دستور کے خلاف بات۔
 اُلٹی سانس چلنا۔ نزع کی حالت میں سانس لگنے فاعل چلنا۔
 اُلٹی سمجھ۔ حماقت۔ نا فہمی۔ بے عقلی۔
 اُلٹی سمجھ نہ سیدھی۔ کسی طرح نہیں ماننا۔ ضدی ہے۔
 اُلٹی مشورہ۔ کسی سے خلاف دستور بات کا ذکر کرنے وقت ابتدا اس جیسے
 سے کرتے ہیں۔
 اُلٹی سوچنا۔ غفل اور رسم و راج کے خلاف کوئی بات ذہن میں آنا۔
 اُلٹی سیدھی باتیں کرنا۔ بے نیکی بات کہنا۔ ہٹ دھرمی کرنا۔
 اُلٹی سیدھی پڑنا۔ اُفت آنا۔ مصیبت پڑنا۔ چوٹ لگنا۔
 اُلٹی سیدھی مٹنا۔ بُرا بھلا کہنا۔ سخت کلامی سے پیش آنا۔
 اُلٹی سیدھی نہ سمجھنا۔ اچھی بُری بات کو ذہن میں نہ لانا۔
 اُلٹی سیدھی مانگنا۔ اول جلول باتیں کرنا۔ اول قول کہنا۔
 اُلٹی سیسٹی۔ (۱) اُلٹی تلوار (۲) دھلے بد (۳) وہ جلالی وظیفہ جو دشمن کی تباہی
 یا ہلاکت کے لیے پڑھا جائے اور جو حال پراس کا اثر ہو جائے۔
 اُلٹی قسمت۔ بری قسمت۔ بد نصیبی۔
 اُلٹی کرنا۔ نئے کرنا۔
 اُلٹی کھوپڑی اندھا کیان۔ [ہٹش] اُمن بے وقوف۔ اُدھی کھوپڑی میں
 اُدھی عقل۔
 اُلٹی کھوپڑی کا۔ رک نام۔ کوز مغز۔ اُدھی کھوپڑی کا۔
 اُلٹی کنگا بھانا۔ خلاف دستور کام کرنا۔
 اُلٹی مالا کھینا۔ اُلٹی نسیب پڑھنا۔ خلاف دستور کرنا۔ اُلٹی باتیں کرنا۔ کسی کی
 بلائیت کے لئے بکھر پڑھنا۔

اُلٹی مٹ۔ سیدھی بات کو اُلٹی کھنے والی عقل۔ غلط سمجھ۔
 اُلٹی ہوا چلنا۔ خلاف دستور کام ہونا۔ اُلٹی زمانہ آنا۔
 اُلٹی ٹیٹیم (Ultimatum) (اُل - ٹی - سے - ٹم) [اُنک۔ ا۔ ند] مشروط
 اعلان جنگ۔ آخری انتباہ۔ وہ آخری تجاویز یا شرائط جنہیں فریق ثانی
 منظور نہ کرے تو شرائط پیش کرنے والا فریق اس کے خلاف اعلان جنگ
 کر دیتا ہے یا اس سے تعلقات منقطع کر دیتا ہے۔
 اُلٹی جب۔ (اُل - جب۔ ما) [ع۔ ا۔ ند] علم جبر و مقابلہ بدیہی کی ایک شاخ کا نام۔
 اُلٹی جوع۔ (اُل - جوع) [ع۔ ا۔ ند] بھوک کی شدت کے اظہار کے لیے
 بولتے ہیں۔
 اُلٹی کھنا۔ کھینا کی ضد۔ پھینا ہوا پیچ و پریچ گھٹی یا پھیندا۔
 اُلٹی کھانا۔ (اُل - کھانا) [ہ۔ مص] کھینا کی ضد (۱) پھینا (۲) اُلٹانا (۳) کھینے
 میں ڈالنا (۴) گڑھ درگڑھ اور پیچ و پریچ کرنا۔ پیچیدہ کرنا۔ (۵) کام سے نکلنا۔
 (۶) اُلٹوانا۔ کھنڈنا (۷) شادی کرنا (۸) فریب میں لانا (۹) باتوں میں لگانا۔
 (۱۰) بھڑکی دیر کے واسطے کپڑے کو پھینا۔ (۱۱) کسی کام میں روپیہ لگانا۔
 (۱۲) بحث کرنا (۱۳) پھیننا۔ پھینا (۱۴) تصفیہ کرنا (۱۵) التوا میں
 ڈالنا۔ دیر کرنا (۱۶) عشق میں مبتلا کرنا۔ (۱۷) طول دینا۔
 اُلٹی اُلٹی۔ (اُل - کھانا) [ا۔ ا۔ کھانا] (۱) کھینا۔ وقت۔
 مشکل، بچھڑنا (۲) بھگڑنا (۳) پھینا۔ اُلٹی پیچ۔
 اُلٹی پڑنا۔ (اُل - پڑنا) [ا۔ ا۔ مص] بحث کرنے کھنا۔ کھکڑا کرنا۔
 اُلٹی چانا۔ (اُل - چانا) [ا۔ ا۔ مص] (۱) کھنی پڑنا (۲) مشغول ہو جانا۔
 اُلٹی جانے کا بھگڑ جائے گا۔ [ایش] ایسا ہو جانے پر بھیک ہو جانے کا۔
 اُلٹی جن۔ (اُل - جن) [ہ۔ ا۔ مٹ] کھیرا سٹ۔ کش کش۔ پیچیدگی۔ بے چینی۔
 پریشانی۔ (۲) تشویش خلیش۔
 اُلٹی کھنا۔ (اُل - کھنا) [ہ۔ مص] (۱) کھنی پڑنا۔ پھینا (۲) حجت کرنا (۳) کھلنا کرنا
 (۴) گڑھ درگڑھ ہونا (۵) اُلٹنا۔ بتلایا کرنا۔ ہونا۔ (۶) کھینے میں پڑنا (۷)
 کھکڑا۔ کھنڈنا (۸) کام سے نکلنا (۹) التوا ہونا۔ کرنا (۱۰) وقت میں پڑنا
 (۱۱) اُنک اُنک کر پھینا (۱۲) غلطان بچیان ہونا (۱۳) خواہ مخواہ چھیر
 نگانا۔ کھینا کی ضد۔
 اُلٹی آسان کھینا مشکل۔ (مقولہ) مصیبت میں انسان سانی نہیں جاتا
 ہے۔ مگر پراس سے نکلنا مشکل ہوتا ہے۔
 اُلٹی کھیرا۔ (اُل - کھیرا) [ا۔ ا۔ ند] کھکڑا۔ کھیرا۔ کش کش۔ غنہ و فساد۔
 اُلٹی کھیرے میں (پڑنا) پھینا۔ (حمارہ) کش کش میں گزرا۔ ہونا۔ بلا پھینا
 اُلٹی کھنا۔ (اُل - کھنا) [ا۔ ا۔ مص] (۱) اُلٹی کھنا۔ اُلٹی کھنا (۲) خالی کرنا۔
 اُلٹی کھاج۔ (اُل - کھاج) [ع۔ ا۔ ند] حاجی۔ حج۔ اُلٹی کھاج۔
 اُلٹی کھاج۔ (اُل - کھاج) [ع۔ ا۔ ند] (۱) گڑھ کرنا۔ منت کرنا (۲) خوشامد
 گریہ و زاری۔
 اُلٹی کھاد۔ (اُل - کھاد) [ع۔ ا۔ ند] (۱) سیدھے راستے سے کتر جانا (۲) دین
 حتی سے پھر جانا۔ طہر ہو جانا۔
 اُلٹی کھال۔ (اُل - کھال) [ع۔ ا۔ ند] (۱) آخر کار قصہ کوتاہ۔ مختصر یہ کہ
 اُلٹی کھال۔ (اُل - کھال) [ع۔ ا۔ ند] شامل ہونا۔ ملنا۔ داخل ہونا۔

الحال - (أل حال) [ع تابع فعل] ابھی - اسی وقت - فی الحال -
 الحان - (أل حان) [ع - ۱ - اند] (۱) اچھی آواز سے گانا یا پڑھنا (۲) لئے
 سُر - (۳) بیخ اول - سخن کی جمع - گیت -
 الحذر - (أل حذر) [ع - ۱ - اند] اللہ کی پناہ - خیر وار -
 الحفیظ - (أل ح - فیظ) [ع - ۱ - اند] (۱) حفاظت کرنے والا (۲) الہی
 پناہ - خدا بچائے -
 الحق - (أل حق) [ع تابع فعل] (۱) فی الحقیقت - واقع میں (۲) شک
 کو درست - سچا -
 الحکم اللہ - اللہ کی حکم ہے -
 الحمد (أل حمد) [ع - ۱ - امث] (۱) سب تعریفیں (۲) قرآن کی پہلی صورت - سورۃ فاتحہ
 الحمد سب تعریف اللہ کے لیے ہیں - خدا کا شکر ہے - خدا کی عنایت ہے -
 الحمد (ع - ۱ - اند) غرناط (اسپین) میں مسلمانوں کا خوبصورت سُرخ پتھر کا محل -
 الح (ع - ۱ - اند) (۱) آخری کا مخفف - آخر تک تمام سب نکل (جب کسی تجارت کا ٹھکانا
 جسدہ لکھ کر باقی کو خوف طوائف نہیں رکھتے تو آخر لکھ دیتے ہیں)
 الحائق - (أل حاق) [ع - ۱ - امث] (۱) رُوئی دار قباجس کا سینہ اور استینوں
 کے جاک کھلے ہوتے ہیں
 الحاموشی نیم رضا - [مثل] چپ ہونے میں بھی ایک قسم کی رضامندی پائی
 جاتی ہے -
 الرجی (Allergy) (ا - ر - جی) [ا - گ - امث] [ع - ۱ - امث]
 حساسیت - کسی چیز کے کالے، پیسے، پینے، او ڈھنے اور کپڑے کے کاٹنے سے
 جسم میں رد عمل کا ظہور پذیر ہونا - حساسیت مرض میں نہیں پائی جاتی - اس بیماری
 کا مریض بعض چیزوں سے نفرت کرنے لگتا ہے اور اس کے ذہن میں یہ خیال بیٹھ جاتا
 ہے کہ وہ اس سے کیلے ضرر رساں ہیں -
 الرطوبہ - بچوں کی کسی حرکتیں سے دقوی -
 الزام - (ال - زام) [ع - ۱ - اند] اہتمام - نہمت - بہتان - جمع : الزامات
 الزام آنا - (محاورہ) قصور وار ٹھہرنا یا خطا دار ثابت ہونا - نہمت لگنا -
 الزام اٹھانا - (محاورہ) اپنے سر پر بدنامی لینا - مورد ملامت ہونا -
 الزام پانا - (محاورہ) قابل ملامت ٹھہرنا - بدنام ہونا -
 الزام دھونیا - دینا - عیب لگانا - قصور وار ٹھہرانا - نہمت دھونا -
 الزام دھرنا - رکھنا - (محاورہ) (۱) قصور وار ٹھہرانا - لم لگانا (۲) نہمت
 لگانا - بہتان جوڑنا -
 الزام کا کام - الزام کی بات - الزام کی چیز - (محاورہ) ایسی بات جس سے
 اپنے سر پر بدنامی آئے -
 الزام کے رکھے رکھنا - (محاورہ) الزام پر الزام لگانا -
 الزام لگانا - (محاورہ) نہمت دھونا - مجرم ٹھہرانا -
 الزام لگنا - (محاورہ) ملامت زار دیا جانا - الزام دہنے لینا -
 الزام لینا - (محاورہ) اپنے اوپر بدنامی لینا -
 الزام ملنا - (محاورہ) الزام پانا - خطا دار ٹھہرایا جانا -
 الزامات - (ال - زامات) [ع - ۱ - اند] الزام کی جمع -
 اللسان (أل - سا - نا) [ع - ۱ - امث] سب سے پہلے سے ہی پڑنا - اُدگھنا -

ألست - (ألست) [ع - حرف استفہام - نکتہ - واحد تکلم] کیا نہیں
 ہوں میں - یہ اشارہ ہے قرآن مجید کی آیت ألست بربکم کی طرف -
 اللسلام علیکم - (أل - س - س - لا - تم - ع - نئے - کم) [ع] سلامتی ہونے پر
 مسلمانوں کا سلام -
 السنہ - (أل - سن - نہ) [ع - ۱ - امث] لسان کی جمع - زبانیں -
 السنی - (أل - سی) [ع - ۱ - امث] ایک پودا اور اس کے بیج کا نام - اس کا
 تیل جلانے وغیرہ کے کام آتا ہے -
 السی کا چھوڑنا نہ کھا کھائے نہ کھوڑا - [مثل] کسی کام کا نہیں -
 کسی مصروف کا نہیں - عمر رسیدہ شخص اکثر اپنے متعلق کفر نفسی کے طرہ
 پرکتے ہیں -
 السبیط - السبیط - (أل سبیط - أل سبیط) [ع - ۱ - امث] دھاندلی غریب
 وغنا بازی - بدمعاشی (۲) اُجھاؤ - رکاوٹ - اڑنگا -
 السیٹیا - (أل سے - ٹ - یا) [ع - ۱ - امث] (۱) دھاندلی کرنے والا - وغنا بازی
 (۲) جھگڑاو - (۳) نادبند -
 الش - (ألش) [ع - ۱ - امث] پس خوردہ - جو ٹھا کھانا - سچا ہوا کھانا -
 الصاق - (ال - صاق) [ع - ۱ - اند] ملانا جیسا کرنا - چپکانا -
 اللطاف - (أل - طاف) [ع - ۱ - اند] لطف کی جمع - مہربانیاں - نوازشیں -
 اللطاف نامہ - مہربانی کا خط - نوازش نامہ -
 العاقل من کفہ اللشارہ [ع مثل] عقل مند کو اشارہ ہی کافی ہے -
 العبد - (أل - عبد) [ع - ۱ - اند] بندہ - فدی - ناجیز (عام طور پر مشاوری اور
 رسیدوں کے پیچھے دستخط کرنے سے پہلے لکھتے ہیں - جمع : العباد
 العطش - (أل - عطش) [ع - ۱ - امث] (۱) پیاس (۲) پیاس کی شدت کے
 موقع پر بولتے ہیں - بہت پیاس لگی ہے
 العظمت اللہ - [ع] بزرگی اللہ کے لیے ہے - قدرت الہی کی عظمت پر بیعت
 ظاہر کر کے یا کسی مہیب اور خوفناک چیز سے پناہ مانگنے کے طور پر
 کہتے ہیں -
 العنار - (أل - غار) [ع - ۱ - امث] لیخار -
 العفارن - (أل - غا - رن) [ع - ۱ - امث] بہت - بافراط - کثرت سے -
 العرض - (أل - رض - رض) [ع - ۱ - امث] عرض خواہ حاصل مطلب - قصہ مختصر - الحاصل -
 العوزہ - (أل - عوزہ - زہ) [ع - ۱ - اند] ایک قسم کی دوسری بانسری -
 العوزہ بلعوزہ - پیٹ کی آٹریاں اور فصلہ وغیرہ -
 العیاش - (أل - ریغ - یاش) [ع] (۱) زیاد (۲) فریاد ہے - دُائی ہے
 کوئی بچاؤ -
 ألف - [ع - صفت] ہزار - دس سو - جمع : - آلف - آلات
 الف لیبلہ (۱) ہزار تریں (۲) عربی کی ایک مشہور انسان -
 الف - (أل - یف) [ع - ۱ - اند] عربی نازی - اردو کے حروف تہجی کا پہلا حرف
 دیکھیے "ا"
 الف آزاد کا - آزاد فیر جو اپنے مالق پر ایک سیدھی لکیر کھینچتے ہیں - اس لکیر
 کو آزاد کا الف کہتے ہیں -
 الف اللہ - (۱) بے ناگ (۲) تنہا - اکیلا (۳) مفسس غریب اور محتاج (۴) آزاد

فیروز کا ٹیکر جو تاک کی نوک سے سر کے بالوں تک سیدھا کھینچ دیتے ہیں

الف بے۔ الف بے تے۔ حروف تہجی۔ الف سے تک حروف۔
الف بے تے پڑھنا۔ (محاورہ) (۱) بچے کو ابتدائی قاعدہ پڑھانا (۲)
نا سمجھ اور بے وقوف کو کوئی بات سمجھانا یا سکھانا۔
الف سے بے نہ سننا (محاورہ) اپنی نسبت ذرا بھی بُری بات نہ سننا۔
الف سے بے نہ کنا۔ (محاورہ) کسی کو ذرا بھی بُرا نہ کنا۔ نالام تم کلمہ زبان
پر نہ لانا۔
الف کھینچنا۔ (محاورہ) آزاد فیروزنا۔ فقیر ہی لینا۔
الف کے نام بے نہیں جانتے (محاورہ) بالکل ان پڑھ ہیں۔ جاہل آدمی۔
الف مقصودہ۔ وہ الف جس پر مد نہ ہو۔
الف محمدودہ۔ مد والا الف۔ لمی آزاد والا الف۔ وہ الف جسے کھینچ کر
پڑھا جائے۔
الف ہونا۔ (۱) چراغ پا ہونا۔ گھوڑے کا پھیل ٹانگوں پر کھڑا ہونا۔ سادہ
پر ہونے ہونا۔
الف۔ (ع۔ ۱۔ مٹ) (۱) دوستی۔ یاری (۲) عادی ہونا۔
الف ابیٹ (Alphabet) (ال۔ نا۔ بیٹ) (الک۔ ہ۔ ند) حروف تہجی
الفاظ۔ (ال۔ نا۔ ظ) (ع۔ ۱۔ مذ) الفظ کی جمع۔ لفظیں۔
الفقت (ال۔ فت) (ع۔ ۱۔ مٹ) پیار۔ محبت۔ دوستی۔
الفقت جتنا۔ (محاورہ) محبت کا اظہار کرنا۔
الفقت کا بندہ۔ (صفت) محبت کا غلام۔
الفقت کرنا۔ (محاورہ) محبت کرنا۔
الفقتہ۔ (الف۔ نت) (ا۔ ر۔ صفت) (۱) پریشان۔ مفلس۔ فلاش۔ صفت۔ خود۔
(۲) غیر۔ بیگانہ۔ (۳) بد معاش۔ آزادہ۔ بدچلن۔
الفرق۔ (ال۔ ف۔ راق) (ع) جدائی کے وقت حضرت دافوس کا کلمہ۔
الفیرتہ عواہ عواہ مروا آدمی (مٹ) (ع) تقریب سے بے باغت فخر ہے پیغمبر اسلام
الفقر فخری۔ (ال۔ ف۔ ف۔ ر۔ ع۔ ج۔ ب۔ ن) (ع) تقریب سے بے باغت فخر ہے پیغمبر اسلام
صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث (۲) (محاورہ) فقیر ہی میں خوش رہنا۔
الفن۔ (ال۔ فن) (ا۔ ر۔ مٹ) ایک قسم کی نکل۔ بڑا پتنگ۔
الفنی۔ (ال۔ فن) (ا۔ ر۔ صفت) (۱) اقلب داسی لکیریں جو کپڑے۔ برتن یا پھری پکھی
ہوں۔ (۲) پتنگ جس کے ہڈیوں پر دوسرے رنگ کے کاغذ کی پٹی لگی ہو
(۳) بیزار۔ ستیوں کا گونا۔ کفن۔ فقیر نہ لباس۔
الفنی قاب۔ وہ قاب جس پر چھوٹے چھوٹے سیدھے خط پڑے ہوتے ہیں۔
الفنی کنگنا۔ وہ کنگنا جس میں اوپر سے نیچے تک دوسرے رنگ کے کاغذ کی
چوڑی پٹی لگی ہو۔
القبا۔ (ال۔ قا) (ع۔ ۱۔ مذ) ڈالنا۔ غیب سے دل میں ڈالنا۔ وہ بات جو خدا
دل میں ڈال دے۔
القبا ہونا۔ (۱) دل میں کوئی بات پڑنا (۲) غیب سے دل میں کوئی بات آنا۔
القبا۔ (ال۔ قاب) (ع۔ ۱۔ مذ) لقب کی جمع۔ وہ خطاب جو محترم الیہ
کے لیے خط کے عنوان میں لکھے جاتے ہیں۔
القصہ۔ (ال۔ قیص۔ صد) (ع) الحاصل۔ حاصل کلام مطلب قصہ مختصر

غرضیکہ۔ خلاصہ یعنی۔
القط۔ (ال۔ قط) (ع) (۱) الگ۔ بے کار۔ غلط بے موقع (۲) کاٹ دینا۔
الگ کر دینا۔ موقوف کر دینا۔
اللفظ (کرتنا) ہو جانا۔ ترک تعلق ہو جانا۔ امر مضموم ہو جانا۔ نکال دینا۔ الگ کرنا۔
الکحل۔ (ال۔ ک۔ حل) (ع۔ ۱۔ مٹ) شراب۔ اسپرٹ
الکیم (اڈا وعدہ فا۔) (ع) کیم جیب وعدہ کرتا ہے تو اسے پورا کرتا ہے۔
الکسنا۔ (ال۔ ک۔ سنا) (ع) نکس [کاہلی آنا۔ نکس یا سستی محسوس کرنا نیند
آنا۔ اڈنگھ آنا۔
الکسی۔ (ال۔ ک۔ سی۔ ال۔ کس) (ع۔ ۱۔ مٹ) [کاہلی سستی۔
الکسی آنا۔ سستی محسوس کرنا۔ کاہلی سے کسی کام کو جی نہ چاہنا۔
الککن۔ (ال۔ کن) (ع۔ صفت) جھگلا۔
الکھ۔ (ا۔ کھ) (ع۔ ۱۔ مذ) (۱) جو دیکھنے میں نہ آئے۔ بے پتا اور بے نشان۔
پوشیدہ۔ انوپ۔ غائب۔ خراہ خدا تعالیٰ (۲) جو کبھی کا سلام۔
الکھ پریش کی مایا کہیں دھوپ کہیں سا۔ (ہٹ) خدا کی قدرت ہے کہ
کہیں دھوپ ہے اور کہیں سایا۔ کسی کو امیر کیا کسی کو غریب کہیں
شادی ہے کہیں نمی۔
الکھ جلاگے۔ جو کبھی کے مانگنے کی صدا۔
الکھ جگنا۔ (محاورہ) خدا کا نام لینا۔ خدا کے نام کی منادی کرنا۔ مناجات
کرنا (۲) خدا کا نام لے کر مانگنا۔
الکھدھاری۔ ایک قسم کے ہندو فقیر جو خدا کے سوا کسی کو نہیں مانتے
الگ۔ (ا۔ گ) (ع۔ صفت) (۱) جدا۔ علیحدہ (۲) پرے۔ دور (۳) بے سہارا
معلق (۴) تنہا۔ ایسلا (۵) مستثنیٰ۔ خارج (۶) آزاد بے تعلق (۷)
اچھوتا۔ غیر مستعمل (۸) محفوظ۔ بچا ہوا (۹) صاف۔ بے لاگ (۱۰)
[فعل] پرے ہٹ۔ پرے مرگ۔ چل۔ رستہ لے (۱۱) چھپنے سے
بے آہٹ۔ کھٹنے سے بچا کر۔ آہستہ۔
الگ الگ۔ جدا جدا۔ دور دور۔ پرے پرے۔ پراگندہ۔ متفرق۔
الگ الگ پھرنا۔ (محاورہ) دور دور رہنا۔
الگ الگ رہنا۔ (محاورہ) دور دور رہنا۔ خفا رہنا۔ چکھے رہنا۔
الگ بٹھانا۔ (محاورہ) علیحدہ رہنا۔ فاصلے پر بٹھانا۔
الگ بچاگے رکھنا۔ (محاورہ) کسی کا حصہ نکال کر محفوظ رکھ دینا۔
الگ پڑنا۔ (محاورہ) جدا سو رہنا۔
الگ پھٹک (۱) کنارہ کش۔ جدا۔ علیحدہ۔ تنہا (۲) محفوظ۔ اچھوتا۔
الگ رہنا۔ (محاورہ) جدا رہنا۔ بے تعلق رہنا۔
الگ کرنا۔ (۱) جدا کرنا۔ علیحدہ کرنا (۲) اتارنا۔ تراشنا۔ کاٹنا (۳) کھولنا۔ سلجھانا۔
(۴) موقوف کرنا۔ نوکر کو چھوڑنا (۵) چھیننا۔ انتخاب کرنا (۶) نکالنا۔ باہر کرنا
خارج کرنا (۷) فروخت کرنا (۸) نکالنا۔ ختم کرنا (۹) توڑنا۔ جگڑے
بے جگہ کرنا (۱۰) چھپانا۔ غائب کرنا (۱۱) خراب کرنا (۱۲) غبن کرنا (۱۳) بٹھانا
سرکانا (۱۴) ترک کرنا (۱۵) موقوف کرنا۔ چھوڑنا۔
الگ کھسکنا۔ (محاورہ) علیحدہ ہٹ جانا۔ دور رہنا۔
الگ ہونا۔ (محاورہ) (۱) جدا ہونا (۲) ٹوٹنا (۳) موقوف ہونا (۴) ہٹنا۔ سرکانا۔

اللہ جانے۔ خدا کو علم ہے۔ کسی امر سے واقف نہ ہونے، بات کے سمجھنا نہ آنے پر کہتے ہیں۔

اللہ جھوٹ نہ بلواسے (مجادرہ) جب کسی بات کے متعلق یقینی طور پر نہ کہا جاسکے اس وقت بولتے ہیں۔

اللہ جانظہ۔ خدا نگہبان۔ اللہ بلی۔

اللہ خیر کرے (مجادرہ) خطرے اور اندیشے کے مقام پر بولتے ہیں۔ اللہ دے اور بندہ ملے۔ (مجادرہ) کسی بات کی کثرت مخصوصاً کسی بے اتنا غصہ ہونے پر کہتے ہیں۔

اللہ رکھے۔ (کلمہ دعا) خدا سلامت رکھے۔ دکھ درد سے محفوظ رکھے زندہ رکھے۔ قائم رکھے۔ (۲) سلامتی سے۔ مجیزہ۔ ماشاء اللہ شتریم بد دور۔ نام خدا۔

اللہ رکھے تو کون چکھے۔ [مثیل] جسے اللہ صحیح سالم رکھنا چاہے۔ اسے کون مار سکتا ہے۔

اللہ رے۔ واہ واہ۔ کلمہ تعجب۔ جو کسی چیز کی زیادتی یا خوبی پر دلالت کرے اللہ رے تیرے دیدے کی صفائی۔ [مثیل] اتنی تیری بے حیائی تیری ڈھائی کی حد نہیں۔

اللہ رے ہیں۔ (مجادرہ) واہ رے میں۔ میرا کیا کہنا۔

اللہ سلامت رکھے۔ (مجادرہ) خداوند رکھے۔ خدا برقرار رکھے۔

اللہ سے ڈرو۔ اللہ کو نا۔ (مجادرہ) خدا کا خوف کرو۔

اللہ سے کام پڑا ہے۔ (مجادرہ) جان کے لالے پڑے ہیں مصیبت اور آفتیں گزرا رہے۔

اللہ سے لو لگی ہے۔ خدا کی طرف دھیان ہے۔ اللہ سے امید ہے۔

اللہ شاہد ہے۔ خدا گواہ ہے۔ فتویٰ کی جگہ کہتے ہیں۔

اللہ غنی۔ اظہار غلظت میں مبالغہ پر کسی حد مر یا تکلیف کے وقت یا تعجب کے موقع پر بولتے ہیں۔

اللہ غنی تو کلا ہے کی کمی۔ خدا کے پاس سب کچھ ہے۔ اگر وہ چاہے تو ایک دم میں امیر کر دے۔

اللہ کا الف۔ وہ الف جو آزاد فقیرا فقیرا رکھتے ہیں۔

اللہ کا بندہ (۱) خدا کا غلام (۲) اللہ کی بندگی کرنے والا (۳) آدمی انسان (۴) [طنزاً] بیوقوف۔ سیدھا آدمی۔

اللہ کا پیارا۔ خدا کا محبوب (۲) بزرگ۔

اللہ کا دیا سہریہ۔ [مثیل] کوئی بات یا معاملہ فابوسے باہر ہو جائے تو اور اسے حورا کرنا پڑے تو کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے جو کچھ ہے اسے گوارا کرنا ہی پڑتا ہے۔

اللہ کا دیا تو کبھی نہ ہووے دور۔ [مثیل] اللہ کی دی ہوئی چیز کو نہ مال تمہیں (۲) حصاب لگانے ہوئے اگر کچھ مال سفید رہا ہیں تو مزاحاً کہا جاتا ہے۔

اللہ کا کلام۔ قرآن شریف۔

اللہ کا کھر (۱) خانہ کعبہ۔ (۲) مسجد (۳) دل

اللہ کا گھر برسا ہے۔ خدا کے گھر میں کمی نہیں ہے۔ وہ بڑا کارساز بندہ نواز ہے۔

اللہ ہی الگ۔ دور ہی دور۔ دور سے۔ ایکلے ایکلے۔ اوپر ہی اوپر۔

الگنی۔ (ال۔ گ۔ نی۔) [ع۔ ا۔ ح۔ ت۔] اٹھن کپڑے لٹکانے کی ڈوری یا رسی۔

الگنی پر ڈالنا۔ (مجادرہ) سکھانے یا ہوا دینے کے لیے ڈوری پر ڈالنا۔

الگنی پر ڈالنے کے قابل ہوگئے۔ (مجادرہ) بہت ہی لاغر ہو گئے۔

الہل پھیلا۔ صبح اہل پھیلا۔ گھوڑے کا نوخیز بچہ جس پر ابھی سواری نہ کی گئی ہو۔ (۲) ناخبرہ کار۔ بے کار۔ بے پروا جوان۔

الہل ٹپ۔ الہل ٹپو۔ [صفت] خیالی۔ اٹکل بچو۔

الہل خشیپ۔ [صفت] منتر لزل۔ ایک جگہ قرار نہ پگڑنا (۲) بے پروا۔ غیر مستقل مزاج۔

اللہ۔ (ال۔ لاہ) [ع۔ ا۔ ح۔ ت۔] خدا۔ موجود۔ خدا کا اسم ذات (۲) لے خدا۔ الہی۔ (۳) واہ۔ آہ۔ آہ۔ ادا۔

اللہ آمین سے پالنا۔ (مجادرہ) دعا میں مانگ مانگ کر پرورش کرنا۔ کمال محنت اور شفقت سے پالنا۔ لاڈلپا رے سے پالنا۔

اللہ آمین کا۔ (مجادرہ) دعاؤں اور التجاؤں کا سنا زبردورہ۔ سنا زوں کا پالنا ہونا۔

اللہ آمین کرنا۔ (مجادرہ) غور پر دعا خست کرنا۔ خیر ذوق کی دعا مانگنا۔

اللہ آمین ہونا۔ (مجادرہ) غور پر دعا خست ہونا۔

اللہ اٹھلے۔ (مجادرہ) موت آجائے۔ مر جائے۔

اللہ اکبر (۱) خدا بہت بڑے پنجبر نماز میں۔ جنگ میں حملہ کرتے اور جانور کو ذبح کرتے وقت کہی جاتی ہے (۲) تعجب غلظت ٹینگوئے شکایت۔ کمال مہلت اور فخر و مہمانت کے موقع پر استعمال کرتے ہیں۔

اللہ اللہ۔ (۱) کلمہ تعجب (۲) کلمہ تحسین۔ واہ واہ۔ آفرین (۲) ٹینگوئے شکایت کے موقع پر بھی استعمال کرتے ہیں۔ (۳) بعض فقہاء کا سلام۔

اللہ اللہ خیر سلا۔ (مجادرہ) فراغت ہوئی۔ فرصت ملی۔ اس کے لگے کچھ نہیں۔ اور کچھ نہیں۔

اللہ اللہ رے۔ (مجادرہ) مہلتے کا کلمہ۔

اللہ اللہ کر کے۔ (مجادرہ) خدا خدا کر کے۔ بڑی مشکل سے۔

اللہ اللہ کرنا۔ (مجادرہ) خدا کا نام لینا۔ بیخ پرھنا (۲) صبر توکل کرنا۔

اللہ اللہ کرو۔ (مجادرہ) (۱) خدا خدا کرو۔ خدا کا نام لو (۲) جھوٹ نہ بولو اللہ بھائے۔ خدا محفوظ رکھے۔

اللہ بخشنے۔ خدا مغفرت کرے۔

اللہ بس باقی ہوس (منقول) اللہ کے سوا سب بیخ ہیں۔

اللہ بسما اللہ کرنا۔ کمال غور پر دعا خست کرنا۔ غنیمتیں ماننا۔ مزادیں ماننا۔

اللہ جھلا کرے۔ (۱) فیروز کی صدا (۲) کسی کے سوک اور نیکی پر دعائیر کلمہ۔

اللہ بلی۔ (مجادرہ) اللہ نگہبان۔ خدا جانظہ۔

اللہ پر نظر رکھو۔ (مجادرہ) خدا پر بھروسہ رکھو۔ ہر سانس نہ ہو۔

اللہ تیرے (متانا) ماننا۔ (مجادرہ) غنیمتیں ماننا۔ نذر دینا ماننا۔

اللہ توکل۔ خدا پر بھروسہ (۲) اتفاق سے۔ اتفاقاً۔

اللہ توکل کا رخا نہ ہے۔ (مجادرہ) توکل پر سہارا داتا ہے۔ کسی کی مدد نہیں ہے۔ بے پروا ہی ہے۔

اللہ جانتا ہے۔ خدا واقف ہے۔ خدا کو علم ہے۔

اللہ لاطھی لے کے قہوڑا ہی مارتا ہے۔ خدا تہا کہ سزا اس طرح دیتا ہے جس کا دہم دگن بھی نہیں ہوتا۔

اللہ لگتی۔ (محاورہ) بیچ بات۔ حق کی بات۔ انصاف کی بات۔

اللہ مارا۔ خدائی خوار۔ بد بخت۔ مصیبت زدہ۔ لاندہ درگاہ۔

اللہ ملائی جوڑی ایک اندھا ایک کوڑھی۔ [مثل] دونوں ایک صیغے ہیں۔ ہر ایک میں کوئی نہ کوئی عیب ضرور ہے۔

اللہ میاں۔ خدا۔ اللہ تعالیٰ۔

اللہ میاں بھرتے کو بھرتے ہیں۔ (منقولہ) اس منہ پرکتے ہیں جب ضرورت والا محروم رہے اور جسے ضرورت نہ ہو اسے تل جائے۔

اللہ میاں کا رحم۔ عورتیں رت جگے میں لگنوں کے علاوہ جانوروں کے آٹے میں کھانڈ ملا کر بچلے بناتی ہیں جسے اللہ میاں کا رحم سمجھتے ہیں۔

اللہ میاں کا طاقن بھرتا۔ (محاورہ) سمد کے طاقن میں جگنے اور دم رکھنا۔

اللہ میاں کی بھینس۔ (۱) سیاہ رنگ کا ایک کڑا جو بہت سخت جان ہوتا ہے۔ (۲) سیاہ خام زونا آدمی۔

اللہ میاں کی کاسے۔ نہایت بھولا بھالا اور سبھا آدمی۔ بڑا نیک آدمی۔

اللہ تمہان۔ خدا حافظ

اللہ نہ کھائے۔ (محاورہ) خدا کرے ایسا نہ ہو

اللہ نے یہ دن دکھایا۔ (محاورہ) خوشی کے موقع پر کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنی مہربانی سے یہ دکھایا ہے۔

اللہ والی۔ (۱) رویش۔ بزرگ۔ ولی (۲) فقیر۔

اللہ ہی اللہ ہے۔ (۱) خدا کی ذات کے سوا سب بیچ ہے (۲) کلہ تعریف (۳) مسلمان خدیو کی صدا۔

اللہ پارے تو بیڑا پار ہے۔ خدا مددگار ہے نکل مشکلیں آسان ہیں

اللہ لے لے۔ (۱) تل لے۔ (۲) تل لے۔ (۳) تل لے۔ (۴) تل لے۔ (۵) تل لے۔ (۶) تل لے۔ (۷) تل لے۔ (۸) تل لے۔ (۹) تل لے۔ (۱۰) تل لے۔

اللہ لے لے۔ (۱) تل لے۔ (۲) تل لے۔ (۳) تل لے۔ (۴) تل لے۔ (۵) تل لے۔ (۶) تل لے۔ (۷) تل لے۔ (۸) تل لے۔ (۹) تل لے۔ (۱۰) تل لے۔

اللہ لے لے۔ (۱) تل لے۔ (۲) تل لے۔ (۳) تل لے۔ (۴) تل لے۔ (۵) تل لے۔ (۶) تل لے۔ (۷) تل لے۔ (۸) تل لے۔ (۹) تل لے۔ (۱۰) تل لے۔

اللہ لے لے۔ (۱) تل لے۔ (۲) تل لے۔ (۳) تل لے۔ (۴) تل لے۔ (۵) تل لے۔ (۶) تل لے۔ (۷) تل لے۔ (۸) تل لے۔ (۹) تل لے۔ (۱۰) تل لے۔

اللہ لے لے۔ (۱) تل لے۔ (۲) تل لے۔ (۳) تل لے۔ (۴) تل لے۔ (۵) تل لے۔ (۶) تل لے۔ (۷) تل لے۔ (۸) تل لے۔ (۹) تل لے۔ (۱۰) تل لے۔

اللہ لے لے۔ (۱) تل لے۔ (۲) تل لے۔ (۳) تل لے۔ (۴) تل لے۔ (۵) تل لے۔ (۶) تل لے۔ (۷) تل لے۔ (۸) تل لے۔ (۹) تل لے۔ (۱۰) تل لے۔

اللہ لے لے۔ (۱) تل لے۔ (۲) تل لے۔ (۳) تل لے۔ (۴) تل لے۔ (۵) تل لے۔ (۶) تل لے۔ (۷) تل لے۔ (۸) تل لے۔ (۹) تل لے۔ (۱۰) تل لے۔

اللہ لے لے۔ (۱) تل لے۔ (۲) تل لے۔ (۳) تل لے۔ (۴) تل لے۔ (۵) تل لے۔ (۶) تل لے۔ (۷) تل لے۔ (۸) تل لے۔ (۹) تل لے۔ (۱۰) تل لے۔

اللہ لے لے۔ (۱) تل لے۔ (۲) تل لے۔ (۳) تل لے۔ (۴) تل لے۔ (۵) تل لے۔ (۶) تل لے۔ (۷) تل لے۔ (۸) تل لے۔ (۹) تل لے۔ (۱۰) تل لے۔

اللہ لے لے۔ (۱) تل لے۔ (۲) تل لے۔ (۳) تل لے۔ (۴) تل لے۔ (۵) تل لے۔ (۶) تل لے۔ (۷) تل لے۔ (۸) تل لے۔ (۹) تل لے۔ (۱۰) تل لے۔

اللہ لے لے۔ (۱) تل لے۔ (۲) تل لے۔ (۳) تل لے۔ (۴) تل لے۔ (۵) تل لے۔ (۶) تل لے۔ (۷) تل لے۔ (۸) تل لے۔ (۹) تل لے۔ (۱۰) تل لے۔

اللہ لے لے۔ (۱) تل لے۔ (۲) تل لے۔ (۳) تل لے۔ (۴) تل لے۔ (۵) تل لے۔ (۶) تل لے۔ (۷) تل لے۔ (۸) تل لے۔ (۹) تل لے۔ (۱۰) تل لے۔

اللہ لے لے۔ (۱) تل لے۔ (۲) تل لے۔ (۳) تل لے۔ (۴) تل لے۔ (۵) تل لے۔ (۶) تل لے۔ (۷) تل لے۔ (۸) تل لے۔ (۹) تل لے۔ (۱۰) تل لے۔

اللہ کا محبوب۔ (۱) خدا کا پیارا۔ (۲) حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم۔

اللہ کا نام سبیا (محاورہ) خدا کے نام کے سوا سب جھوٹا کارغا ہے۔ تقیروں کی صدا۔ اللہ کا نام تو۔ (محاورہ) خدا کو یاد کرو۔ خدا خدا کرو۔ (۲) توبہ کرو جھوٹ نہ بولو۔

اللہ کا نام محمد کا کلمہ۔ (۱) کچھ بھی موجود نہیں ہے (۲) بالکل سنا ہی ناواری ہے

اللہ کا نام ہے۔ کچھ یا س نہیں ہے۔ کچھ موجود نہیں ہے۔

اللہ کا نور۔ (۱) خدا کی سخی (۲) نہایت حسین (۳) منبرک شعل کا آدمی۔ فرشتہ ضرورت۔ وہ شخص جس کے چہرہ پر عبادت کرنے کرنے نور آجاتا (۳) وارٹھی۔

اللہ کرے۔ (کلہ نسا) کاش کہ کاش خدا ایسا ہی کرے۔

اللہ کو پیارا ہوتا۔ خدا نے آٹھایا۔ مرگیا۔

اللہ کو دیکھنا۔ کمال یا اس میں خدا پر نظر ہونا ہے۔ کسی میں ضبط کرنا صبر کرنا۔

اللہ کو سوزینا۔ (۱) خدا کے سپرد کرنا (۲) رخصت کے وقت خدا حافظ کہنا۔

اللہ کو ما تو۔ (محاورہ) خدا کا خوف کرو۔ باز آؤ۔

اللہ کو مٹھ دیکھا ہے۔ (۱) خدا کے سامنے جانا ہے (۲) کسی کو بد اعمالیوں سے منع کرنے دنت کہتے ہیں کہ باز آ جاؤ۔ ایک دن خدا کے سامنے پیش ہونا ہے۔

اللہ کو یاد کرو۔ صبر کرو۔ گھبراؤ نہیں۔ خدا پر نظر رکھو۔

اللہ کی امان۔ خدا پکائے۔ خدا اپنی حفاظت میں رکھے۔

اللہ کی امان پر پیچھے جا سارہ۔ خدا اپنی حفاظت میں رکھے۔ پیرو اور پیغمبر کا کام مثل تہ ہے۔ سفر کے وقت کی دعا۔

اللہ کی باتیں اللہ ہی جانتے۔ خدا کے عہد وہی بہتر جانتا ہے۔

اللہ کی بنیاد۔ خدا کی امان۔ خدا محفوظ رکھے۔

اللہ کی چوری نہیں تو بندے کی کیا چوری۔ عذابیہ ڈھٹائی اور بے جا بیانی سے کسی بہبود دہل کرنے کے وقت کہتے ہیں۔

اللہ کی سنوارا۔ اعتراض یا ڈانٹ ڈپٹ کا کلمہ (۲) مذہب بد دعا۔

اللہ کی نشان۔ (محاورہ) خلاف توقع اور خلاف مزاج کام ہونے پر کہتے ہیں۔

اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ کی قدرت کا تماشا نظر آتا ہے۔ (کلہ تعجب) کسی عجیب بات پر اظہار تعجب کے بیٹے یا حسن کمال کی تعریف کے لیے خلاف توقع کام پر اظہار حیرت کے طور پر کہتے ہیں۔

اللہ کی لاطھی ہیں آواز نہیں۔ [مثل] خدا اس طرح ظلم کی سزا دیتا ہے جس کا سامان بھی نہیں ہوتا۔

اللہ کے شکر بڑے کا پتھر ہیں۔ [مثل] اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ اس سے مایوس نہ ہونا چاہئے (۲) کسی کے ظلم اور زیادتی پر کہتے ہیں۔

اللہ کے گھر سے گھرنا سخت مرض سے صحت پانا۔ مرم کے بچنا۔

اللہ کے گھر میں کیا کمی ہے۔ (محاورہ) خدا کے گھر کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔

اللہ کے لوگ۔ اللہ لوگ۔ فضخ جو دنیا و مافیہا سے بے خبر ہو بھولا بھالا فرشتہ سیرت۔ سبدا سادہ۔ سادہ لوح۔

اللہ کے مست۔ مجذوب۔ پھینچے ہوئے لوگ۔

اللہ کے نام پڑو۔ خدا کی راہ میں۔ فی سبیل اللہ۔ خدا کے لیے۔

انارت - (۱-ما-رت) [ع-۱-مٹ] دولت مندی سرداری حکومت۔
جمع : امارات۔

آمارہ - (ام-ما-رہ) [ع-صف] (۱) کثرت سے حکم دینے والا (۲) بدی کی طرف غبت
دلانے والا بڑی بات کا حکم دینے والا (۳) کرکٹ، خاتم، انسانی نفس کی ایک قسم
آماس - (ام-ماس) [ع-۱-مٹ] [ع-۱-مٹ] اجنبی رات، چاند کی ۲۸ تاریخ کی رات
جو مکمل طور پر اندھیری ہوتی ہے۔ اماؤس۔

آماکن - (آ-ماکن) [ع-۱-مٹ] مکان کی جمع الجمع۔ منقاس مقامات۔
اماکن (شرفیض) مقدسہ زیارت گاہیں۔ مقدس مقامات۔

امالہ - (ا-مالہ) [ع-۱-مٹ] (۱) مال کی کتنا (۲) علم صرف کی اصطلاح میں الف یا ما
ہو کر کو سے بدلنا جیسے لڑکے سے لڑکے۔ بندہ سے بندے۔

امام - (امام) [ع-۱-مٹ] (۱) پیشوا۔ ہادی (۲) نماز پڑھانے والا (۳) تیسوع کے
دالوں کے اوپر کیا دانہ۔ جمع : ائمہ۔

امام عظم - دیکھیے ابوحنیفہ۔

امام باڑہ - وہ عمارت جس میں شہدائے کربلا کی بائیس بیس اور نعرہ داری ہوتی ہے
امام ضامن کا روپیہ - وہ روپیہ یا سکہ جو مسافر کے باز پر حفاظت سے
پہنچنے کے خیال سے امام ضامن کے نام پر باندا جاتا ہے۔

امام ناطق حضرت امام جعفر صادق کا لقب۔

امامت (۱-ما-مٹ) [ع-۱-مٹ] (۱) رہنمائی۔ رہبری (۲) جماعت کو نماز
پڑھانے کا کام یا پیشہ۔

امامیہ - (امام-یم) [ع-صفت] اہل تشیع جو صرف بارہ اماموں
کو مانتے ہیں۔

آمان - (آ-مان) [ع-۱-مٹ] (۱) پناہ۔ حفاظت (۲) آرام۔ آسائش۔
عافیت۔

امان پانا - پناہ ملنا۔ حفاظت حاصل ہونا۔ امن نصیب ہونا۔

امان دینا - پناہ دینا۔

امان مانگنا - پناہ کی درخواست کرنا۔

آمان - (ا-کلر خطاب) اے۔ ارے۔ اے جی۔

آماں - (ام-ماں) [ع-۱-مٹ] ماں۔ والدہ۔

اماں باوا - ماں باپ۔ والدین۔

امانا - (ا-مانا) [ع-مٹ] [ع-مٹ] بھڑا۔ سمانا۔ اٹ جانا۔

امانت - (ا-مانت) [ع-۱-مٹ] (۱) سیر و کی ہوئی چیز۔ تحویل (۲) بیعت کا
کام (۳) امین کا عہدہ (۴) وہ چیز جس میں تصرف نہ کیا گیا ہو۔ جمع : آمانا

امانت خانہ - وہ مکان یا جگہ جہاں امانتیں رکھی جاتیں۔

امانت خانی زورہ - (۱) صف (۲) ایک شخص کا کھانے کا ٹوکا۔

امانت دار - امین۔ معتد۔ لدا (۲) امانت رکھنے والا تحویل دار (۳) اماندار۔

امانت رکھنا - حفاظت کے لئے کوئی چیز کسی کے سپرد کرنا۔

امانت گزار - وہ شخص جو کوئی چیز امانت میں رکھے۔

امانت میں خیانت - کسی کی رکھی ہوئی چیز میں تصرف کرنا۔

امانت میں خیانت تو زمین بھی نہیں کرتی - (منقولہ) الزام اور ملامت

کے طور پر کہا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اگر کسی لاش کو بطور امانت

الہی نذر - اکبر بادشاہ کا چلا ہوا گز ۳۳۳ سچ کا ہونا تھا اور عمارت ناپنے
میں اسے تک کام آتا ہے۔

الہی مذہب - اکبر بادشاہ کا رائج کردہ دین الہی۔

الہی مہر (مٹ) شہر شاہی - وہ قرض جو لازماً ادا کرنا پڑے۔ لازمی اور ضروری
قرض۔

الہیات - (ا-لابی - بیات) [ع-۱-مٹ] علم الہی فلسفہ حکمت۔ وہ علم جس میں
خدا کے وجود اور ذات و صفات سے بحث کی جاتی ہے۔

الی آلان - (ا-کل - آن) [ع] ابھی تک۔ اس وقت تک۔

الیہ [ع] اس تک۔ اس کی طرف۔

آلے (آل تے) [ق-۱-مٹ] ایک راگ کا نام۔

الیاس - (ال - یاس) [ع-۱-مٹ] ایک پتھر کا نام جو لوگوں کے عقیدے میں
قیامت تک زندہ رہیں گے اور حضرت خضر کے برعکس خشکی پر پھولے
بھٹکوں کی رہنمائی کرتے ہیں۔

آلیچنا - (ا-لیج - نا) [ع-مٹ] پانی پھینکنا۔ ہاتھ یا ریتن سے پانی اچھال کر دوسری
طرف ڈالنا۔

الیکٹرک (Electric) (ایک - ٹ - رک) [انگ - ۱ - صفت]
بجلی کے متعلق۔ بجلی کا۔ برقی۔

الیکشن (Election) (ا-لیک - شین) [انگ - ۱ - مٹ] انتخاب۔ چناؤ
آلیل - (ا-لیل) [ع-۱-صفت] (۱) بے دانت کا پتھر (۲) بے پردہ۔ اظہر۔
نوجوان۔ نابالغ۔ کار۔ دنیا کے کاروبار سے بے خبر۔

آلیم - (ا-لیم) [ع-صفت] دردناک۔ تکلیف دہ۔

آلیٹرنا - (ا-لیٹ - نا) [ع-مٹ] [ع-مٹ] آٹنا۔

آلیا - (ا-لی - یا) [ع-۱-مٹ] چھوٹا طاق۔

ا-م

آم - (۱-صوت) دودھ پیتے پیتے کی زبان میں پانی کا اشارہ۔
آم - (ف - مٹ) اس مرکبات میں بطور سابق استعمال ہوتا ہے جیسے
امسال۔ امروز۔

آم - (ع-۱-مٹ) ماں۔ والدہ۔ جمع : أمهات

آم الامراض - بیماریوں کی ماں۔ کما نسی۔ زکام یا نفع

آم النجاشٹ - بجا بون کی ماں۔ شراب۔

آم الصبیان - بچوں کو مسان کی بیماری۔ بچوں کی مرگی۔ ڈبہ اطفال۔

آم العلوم - علم صرف۔

آم القرئی - شہروں کی ماں۔ مکہ معظمہ

آم الکتاب - (۱) کتابوں کی ماں۔ قرآن شریف (۲) سورۃ فاتحہ یعنی الحمد۔

آم الولد - وہ کیز جس کی بیٹے آقا سے اولاد پیدا ہوتی ہو۔

آم غیلان - ببول۔ بیکر۔

آما - (ام - ما) [ع] یسین۔ پر۔ مگر۔ تا۔ ہم۔ پھر بھی۔

آما بعد - اس کے بعد۔ بعد ازاں۔

زہین میں دفن کر دیا جائے تو وہ خراب نہیں ہوتی۔ امانت میں خیانت نہ کرنی چاہئے۔ امانت نامہ۔ امانت رکھنے کی دستاویز۔ امانت (آمانت) (قن۔ ا۔ مٹ) (۱) ہر ہوبو۔ (۲) مستعار۔ امانت (قن۔ ا۔ مٹ) منت۔ عاجزی۔ امانی (ا۔ ما۔ نی) (ا۔ ا۔ مٹ) وہ کام جو اپنے طور پر کر لیا جائے ٹھیکہ کی ضد۔ امانی آبادی اجارہ اُجالا (منش) امانی میں کام اچھا ہونا ہے اور ٹھیکہ میں خراب ہو جاتا ہے۔ اُادس (ا۔ ما۔ س) (س۔ ا۔ مٹ) پاکھ کی پندرھویں تا بیس۔ قمری جینے کا آخری دن۔ امیر (ا۔ م۔ بر) (۱۔ ۵۔ ا۔ مٹ) چادر (۲) آسمان (۳) بادل (۴) لاجر کی پوشاک۔ امبولنس Ambulance (انگ۔ مٹ) مربعوں کو لے جانے والی گاڑی۔ اُپائر (Umpire) (ا۔ م۔ پا۔ ا۔ ا۔ ر) (انگ۔ ا۔ مٹ) متقابلے کی کھیلوں کا فیصلہ کرنے والا۔ اُمپائر (Empire) (ا۔ م۔ پا۔ ا۔ ا۔ ر) (انگ۔ ا۔ مٹ) سلطنت۔ بادشاہت۔ اُمپرا طور (ا۔ م۔ پ۔ ر۔ ا۔ طور) (ف۔ ا۔ مٹ) انگریزی اُپیر سے فارسی بنایا ہوا۔ شہنشاہ۔ اُمپرا طریس (ا۔ م۔ پ۔ ر۔ ا۔ ط۔ ریس) (ا۔ مٹ) انگریزی اُپیرس کا فارسی بنایا ہوا۔ شہنشاہ۔ مگر۔ ہمارائی۔ اُمبرر (Emperor) (ا۔ م۔ پ۔ ر۔ ا۔ مٹ) (انگ۔ ا۔ مٹ) شہنشاہ۔ اُمپورٹ (Import) (ا۔ م۔ پورٹ) (انگ۔ ا۔ مٹ) تجارتی مال جو دسار سے آنے۔ در آمد کیا ہوا مال۔ اُمپیریل (Imperial) (ا۔ م۔ پی۔ ری۔ یل) (انگ۔ صف) شاہی بادشاہی۔ اُمت (ا۔ مٹ) (ع۔ ا۔ مٹ) (۱) گروہ جماعت (۲) پیرو تالیق جمع : اُمت۔ وہ اُمت جس پر اللہ کی رحمت ہو مسلمان۔ اُمتال (ا۔ م۔ مٹ) (ع۔ ا۔ مٹ) حکم ماننا۔ تعین حکم۔ اُمتال امر۔ حکم کی تعین۔ اُمتخان (ا۔ م۔ مٹ) (ع۔ ا۔ مٹ) آزمائش۔ جاہل۔ پرتال۔ جمع : اُمتخان۔ اُمتخان پاس کرنا۔ کامیاب ہونا۔ آزمائش میں پورا اُمتخان۔ اُمتخان میں پورا اُمتخان۔ (محاورے) آزمائش میں کامیاب ہو جانا۔ اُمتداد (ا۔ م۔ مٹ۔ داد) (ع۔ ا۔ مٹ) طوالت۔ درازی۔ لمبائی۔ مدت۔ اُمتزاج (ا۔ م۔ مٹ۔ زاج) (ع۔ ا۔ مٹ) ملاوٹ۔ آمیزش۔ ہم آہنگی۔ اُمتزاج یکمیائی۔ کسی چیزوں کو ملا کر ایک نئی شے تیار کرنا۔ اُمتنعہ (ا۔ م۔ مٹ۔ نعہ) (ع۔ ا۔ مٹ) مناعہ کی جمع۔ دولت بونجی۔ اُمتلا (ا۔ م۔ مٹ۔ لا) (ع۔ ا۔ مٹ) (۱) پُربونا معدے کا غذا سے پُربونا جی منڈانا (۲) بد بھنی۔

اُمتناع (ا۔ م۔ مٹ۔ ناع) (ع۔ ا۔ مٹ) (۱) روک بمانعت۔ منہا ہی (۲) منع کرنا۔ روکنا۔ اُمتناعی (ع۔ صف) روکنے والا۔ اُمتنان (ا۔ م۔ مٹ۔ نان) (ع۔ ا۔ مٹ) احسان کرنا۔ اُمتنی (ا۔ م۔ مٹ۔ نی) (ع۔ صف) اُمت کے لوگ۔ فرسے کے آدمی۔ جمع : اُمتنیان اُمتیاز (ا۔ م۔ مٹ۔ یاز) (ع۔ ا۔ مٹ) (۱) فرق۔ تمیز۔ ترجیح (۲) تفریق (۳) کچھ شعور۔ جمع : اُمتیازات۔ اُمتیاز کرنا۔ فرق کرنا۔ تمیز کرنا۔ اُمتیاز نامہ۔ لائسنس۔ اُمتیاز حقوق (ع۔ ف۔ ا۔ مٹ) وہ رعایتیں جو کسی گروہ یا شخص کو اس کے مدعا و منصب کی وجہ سے حاصل ہوں اور اسے دوسروں سے ممتاز بنا دیں۔ اُمتٹ (ا۔ مٹ) (ع۔ صف) نشے والا۔ غیر فانی۔ لازوال۔ اُمتثال (ا۔ م۔ مٹ) (ع۔ ا۔ مٹ) مثل اور مثل کی جمع (۱) کہاوتیں (۲) ہم صورت ہم شکل۔ اُمتثلہ (ا۔ م۔ مٹ۔ لہ) (ع۔ ا۔ مٹ) مثال کی جمع۔ مثالیں۔ اُمتجانا۔ (ا۔ م۔ جاننا) (م۔ مٹ) مثل ہو جانا۔ اعضا کا بھاری ہو جانا۔ اُمتجد (ا۔ م۔ مٹ۔ جد) (ع۔ صف) نہایت بزرگ۔ جمع : اُمتجد۔ اُمتجور (ا۔ م۔ مٹ۔ جور) (ع۔ ا۔ مٹ) (۱) سکھائے ہوئے کچے اُمت کی پھانسیں۔ اُمت کی کھائی (۳) سوکھا جھریاں پڑا ہوا آدمی۔ اُمتداد (ا۔ م۔ داد) (ع۔ ا۔ مٹ) مدد۔ حمایت۔ اعانت۔ سہارا۔ سلوک۔ اُمتداد باہمی۔ باہم ایک دوسرے کی مدد کرنا۔ ایک سرکاری محکمہ۔ اُمتدادی (ا۔ م۔ دادی) (ع۔ صف) مدد کیا ہوا۔ سہارا دیا ہوا۔ ویسے والا۔ اُمتز (ع۔ ا۔ مٹ) (۱) حکم۔ فرمان (۲) بات۔ فعل۔ کام (۳) معاملہ۔ باب۔ جمع : اُمتز۔ اُمتز۔ اُمتز المعروف نہی عن المنکر۔ نیک کاموں کا حکم اور بُرائی سے روکنا۔ اُمتز نفع طلب۔ وہ امر جس میں کسی چیز کی تفصیل یا تشریح مطلوب ہو۔ اُمتز غیر منقولہ۔ وہ بات جو مقدمے کی بحث سے خارج ہو۔ اُمتز (ا۔ مٹ) (ع۔ صف) (۱) مرنے والا۔ ہمیشہ رہنے والا۔ لانوال (۲) ایشور کا ایک نام۔ اُمتز (ا۔ مٹ) (ع۔ صف) (۱) دنیا۔ جنت۔ بہشت۔ سورگ۔ عالم نقاب۔ اُمتز ہونا۔ غیر فانی ہونا۔ ہمیشہ زندہ رہنا۔ اُمتز (ا۔ مٹ) (ع۔ ا۔ مٹ) (۱) اُمتیر کی جمع (۲) دولت مند لوگ۔ رئیس۔ مالدار۔ مُعزز۔ اُمتراض (ا۔ م۔ مٹ۔ رض) (ع۔ ا۔ مٹ) مرض کی جمع۔ بیماریاں۔ اُمتزائی (ا۔ م۔ مٹ۔ زائی) (ع۔ ا۔ مٹ) اُمت کا باغ۔ اُمت کی باڑی۔ اُمتزیل (ا۔ مٹ۔ زیل) (ع۔ ا۔ مٹ) ایک بیل جس کی جرد میں ہوتی۔ آکاس بیل۔ اُمتز (ا۔ م۔ مٹ) (س۔ ا۔ مٹ) (۱) اُمتیر۔ آب حیات (۲) شرف۔ شہد (۳) بہت لذیذ اور شیریں چیز۔ اُمتز دھاوا۔ آب حیات۔ ایک مٹھور دوا کا نام۔ اُمتز سار۔ (۱) اُمتھن۔ (۲) گھی۔ اُمتز (ا۔ مٹ۔ ز) (قن۔ ا۔ مٹ) (۱) اُمتھان جو ماش کے ٹکے بنائی جاتی ہے اور شکل میں جلیبی سے مشابہ ہوتی ہے۔

تربی جاتی ہے (۲) نشہ لانے والی تہی (جنگ)
 اُمتاس - (اُن تاس) (۱-۵) ایک لمبی پھلی جس کا مغز ہمسلم کے لیے دیا
 جاتا ہے۔ خیار خنجر۔
 اُمتنا - (اُن مل - نا) (۵-۵) کُند ہونا۔ تَرش ہونا (۲) بیٹ کے پھول
 کا کھینا۔ اعصاب میں تشنج ہونا۔
 اُمتلی - (اُم - لی) (۵-۱-۵) ایک تَرش پھلی۔ اس کے دخت کو بھی اہلی
 کہتے ہیں۔ خمر ہندی۔
 اُمتھ - (اُمتھ) (ع-۱-۵) اُمت کی جمع۔ اُمتیں۔
 اُمتن - (ع-۱-۵) چین۔ اطمینان۔ سکون و آرام (۲) صلح۔ آشتی۔ پناہ
 امن جین۔ امن و امان۔ آرام و اطمینان سکون اور خیریت حفاظت پہلو۔ آرام۔
 اُمتڈ اُمتڈ کھر آنا۔ (اُمتڈ۔ اُمتڈ۔ کھر۔ آنا) (۵) ہجوم کر کے آنا۔ گھر گھر کرنا۔
 اُمتڈ نا۔ (اُمتڈ نا) (۵) [ص] (۱) جوش میں آنا۔ بھڑانا (۲) گھرا نا۔ ہجوم کرنا۔ جمع ہونا۔
 (۳) چڑھنا۔ طغیانی پر آنا۔
 اُمتنگ - (اُمتنگ) (۵-۱-۵) جوش۔ دلولہ۔ شرق۔ ترنگ۔
 اُمتنگ پر۔ اُمتنگوں پر۔ ترنگ میں بھرا ہوا ہستی میں۔
 اُمتنگ کے دن۔ ستون اور لوہے کا زمانہ۔
 اُعتیت (اُم نی۔ بیت) (ع-۱-۵) امن و امان۔ امن جین۔
 اُموا - (اُم۔ وا) (۵-۱-۵) اُم۔
 اُموا - (اُم۔ وا) (۱-۵) اُم کی رنگت سے مشابہ رنگ۔ ماشی پیلا۔ ستل
 کیشفتی۔
 اُموات - (اُم۔ وات) (ع-۱-۵) موت اور میت کی جمع (۱) وفات مرنا
 (۲) مرے ہوئے۔
 اُمواج - (اُم۔ واج) (ع-۱-۵) موج کی جمع۔ لہریں۔
 اُموال - (اُم۔ وال) (ع-۱-۵) مال کی جمع۔ مال و دولت۔ روپیہ پیسہ۔
 دھن دولت۔
 اُمور - (اُمور) (ع-۱-۵) امر کی جمع۔ بہت سے کام۔
 اُمورٹکی - وہ کام یا باتیں جو ملک سے متعلق ہوں۔
 اُمول - (اُمول) (۵-۵) بے ہوا۔ نہایت قیمتی۔
 اُمولا - (اُمولا) (۵-۱-۵) اُم کا نیا پودا۔
 اُمومت - اُمومتیت - (ع-۱-۵) ماں ہونا۔ ماں بن۔
 اُمونیا (Ammonia) (انگ۔ نڈ) ایک بے رنگ گیس جو پانی میں
 حل ہو جاتی ہے۔
 اُمونیشن (Ammunition) (انگ۔ نڈ) سامان جنگ۔ گولہ بارود۔
 اُموی - (اُم۔ وی) (ع-۱-۵) اُمیہ کی طرف منسوب۔
 اُمتات - (اُم۔ تم۔ بات) (ع-۱-۵) اُم کی جمع۔ ماہیں۔
 اُمتاتِ سفلی - زمین کے چاروں عناصر۔ ہوا۔ پانی۔ مٹی۔ آگ۔
 اُمتاتِ علوی - علوم۔ لغز۔ اذاح۔
 اُمی - (اُم۔ می) (اُ۔ ا۔ مٹ) ماں۔ والدہ۔
 اُمی - (اُم۔ می) (ع-۱-۵) بلا پڑھا لکھا۔ اُن پڑھ۔
 اُمیبا - (Amoeba) (اُم۔ با) (انگ۔ نڈ) بدلو۔ ایک قسم کا

اُمردہ - اُم۔ رد) (ع-۱-۵) نوجوان لڑکا جس کے خطہ نہ نکلا ہو۔ نوخیز۔ کس۔
 اُمروپرست - لطفِ نصف [لڑکوں سے عشق کرنے والا۔
 اُمروں - اُم۔ روں) (ع-۱-۵) اُم کے رس کی سوکھی ہوئی تہ۔ اُماوٹ۔
 اُمروں - اُم۔ روں) (ع-۱-۵) اُم کے رس کی سوکھی ہوئی تہ۔ اُماوٹ۔
 اُمروز - (اُم۔ روز) (ع-۱-۵) آج۔ آج کا دن۔
 اُمروز فدا - (۱) آج کل (۲) مال ٹول (۳) صبح شام جلد عنقریب بھوٹے دن۔
 اُمربان (اُم۔ ری۔ بان) (۵-۱-۵) اُم کا باغ۔
 اُمربن (American) (اُم۔ ری۔ کن) (انگ۔ نصف) امریکہ کا کہنے والا۔
 امریکہ سے نسبت رکھنے والا۔
 اُمربکی - (اُم۔ ری۔ کی) (اُ۔ نصف) امریکہ سے نسبت رکھنے والی شے
 اُمربنا - (اُمربنا) (۵-۱-۵) پانی یا کسی اور چیز کا کثرت کی وجہ سے بڑھنا (۲) اُٹھ کر
 پھیلنا۔ پھانا۔ گھیرنا۔
 اُمزجہ - (اُم۔ زجہ) (ع-۱-۵) مزاج کی جمع۔
 اُمس - (اُمس) (۵-۱-۵) گھس۔ جس۔ گھسی ہوئی گرمی۔
 اُمساک - (اُم۔ ساک) (ع-۱-۵) (۱) کھجور (۲) رکاوٹ۔ قبض۔ روک۔ دیر
 کمی۔ کھینچ (۳) دیر سے انزال ہونا (۵) خشک سالی۔
 اُمساک باراں - بارش نہ ہونا۔ خشک سالی۔
 اُمسال - (اُم سال) (ع-۱-۵) اس سال۔ اب کے برس۔
 اُمشب - (اُم شب) (ع-۱-۵) آج کی رات۔ اس رات۔
 اُمصار - (اُم صصار) (ع-۱-۵) مصر کی جمع۔ بہت سے شہر۔
 اُمضا - (اُم ضنا) (ع-۱-۵) (۱) سرکل کی ہر نقطہ۔ نشان (۲) حکم جاری کرنا
 اُمطار - (ع-۱-۵) مطر کی جمع۔ بارش۔
 اُمطار - (ع-۱-۵) بارش۔ بیڑہ۔ برسا۔
 اُمعاء - (اُم۔ عا) (ع-۱-۵) انتڑیاں۔
 اُمعان (اُم۔ عان) (ع-۱-۵) گہری نظر۔ خورد نگہ۔ خوب سوچنا۔ تیز فہمی۔
 اُمکا ڈھمکا (اُم کا۔ ڈھمکا) (۵-۱-۵) ایسا دینا۔ ابرا عیرا۔
 اُمکا ڈھمکا (اُم کا۔ ڈھمکا) (۵-۱-۵) اُم کا ڈھمکا اور کچی چیزیں۔
 اُمکان - (اُم کان) (ع-۱-۵) (۱) ہوسکا جین ہونا (۲) مجال۔ طاقت۔ مفرد
 مقدرت (۳) ناہور۔ اختیار۔ جمع۔ امکانات۔
 اُمکان بھر - طاقت بھر۔ مفرد بھر۔
 اُمکان سے خارج ہونا - (مجاورہ) مجال ہونا۔ ناممکن ہونا۔
 اُمکنہ - (اُم۔ کنہ) (ع-۱-۵) مکان کی جمع۔ مکانات۔
 اُمگا - (اُم گا) (۵-۱-۵) اُبھرا۔ اُبھرا ہوا۔
 اُمل - (اُم۔ ل) (۵-۱-۵) نشہ (سوائے شراب)
 اُمل پانی کرنا۔ نشہ پانی کرنا۔ نشہ پنا۔ جھنگ پنا۔
 اُمل - (اُم۔ ل) (ع-۱-۵) اُمید۔ آرزو۔ خواہش۔ جمع۔ آمال۔
 اُملا - (اُم۔ لا) (ع-۱-۵) (۱) رسم لفظ (۲) یاد سے لکھنا (۳) لکھنا
 اُملاک - (اُم۔ لاک) (ع-۱-۵) اُم کی جمع۔ جاتاؤ۔
 اُمل پید - (اُم۔ ل۔ پید) (۵-۱-۵) اُم کی جمع۔ نہایت تَرش قسم۔
 اُمل پتی - (اُم۔ ل۔ پتی) (۵-۱-۵) اُم کی جمع۔ جاتی کی پتی کے برابر چوڑی

خولی کیرا جو صرف خوردہ میں سے دکھائی دیتا ہے۔ سائنس دانوں کے بقول زندگی کی ابتدا اسی جانور سے ہوئی۔
 ایلٹھنا (ایلٹھنا) (ہ۔ مہر) مروتنا۔ بل۔ دینا۔ اینٹھنا۔
 ایٹیشن۔ (Imitation) (ای۔ می۔ ٹے۔ سن) (انگ۔ ۱۔ مذ) مصنوعی جگہ
 ملے۔

امی جی۔ (ای۔ می۔ جی۔ می) (۱۔ ۱۔ مش) اطمینان کی حالت۔ بے فکری کا زمانہ۔
 غیریت۔ (مخ۔ مان)۔

امید۔ (ام۔ مید) (ف۔ ۱۔ مش) (۱) آرزو۔ توقع۔ (۲) آس۔ (۳) حل۔
 امید اٹھ جانا۔ (معاورہ) توقع نہ رہنا۔

امید بر آنا۔ (معاورہ) آرزو پوری ہونا۔
 امید بر لانا۔ (معاورہ) آرزو پوری کرنا۔ مقصد حاصل ہونا۔

امید بندھانا۔ (معاورہ) ڈھارس دینا۔ توقع دلانا۔ تسلی دینا۔
 امید بندھنا۔ (معاورہ) توقع ہونا۔ آس ہونا۔ آسرا ہونا۔

امید بڑنا۔ (معاورہ) آسرا بندھنا۔
 امید (توڑ دینا) توڑنا۔ (معاورہ) مایوس کر دینا۔ ٹراس کرنا۔ توقع نہ رہنا۔

امید (ٹوٹ جانا) ٹوٹنا۔ (معاورہ) آس چھوٹ جانا۔ نا امید ہو جانا۔
 مایوس ہو جانا۔

امید دلانا۔ (معاورہ) سہارا دینا۔
 امید رکھنا (معاورہ) توقع رکھنا۔ آس رکھنا۔

امید سے ہونا۔ (معاورہ) عورت کا حاملہ ہونا۔ بیٹ سے ہونا۔
 امید قطع کرنا۔ (معاورہ) آسرا چھوڑ دینا۔ توقع توڑ دینا۔

امید کرنا۔ (معاورہ) آرزو کرنا۔ توقع رکھنا۔
 امید گاہ۔ امید کی جگہ۔ جس پر امید کا دار و مدار ہو۔

امید لگنے دکھنا۔ (معاورہ) کسی پر بھروسہ کرنا۔
 امید لگی ہے۔ سہارا باقی ہے۔ آسرا لگا ہے۔

امید دار۔ (۱) آرزو مند۔ خواہش رکھنے والا (۲) آئندہ کے بھروسے پر
 کام کرنے والا۔ جمع : امیدواران۔

امید و ہم۔ مشتبہ حالت۔ امید اور ڈر۔ دو گدا۔
 امید و ناکہ۔ آرزو مند۔ امیدوار کے طور پر۔

امیدوار کرنا۔ (معاورہ) کسی بات کا وعدہ کرنا۔
 امیدواری۔ (۱) آرزو مندی (۲) آئندہ ملازمت کا انتظار۔ آئندہ ملازمت
 کی امید میں کام کرنا۔

امیر۔ (ای۔ میر) (ع۔ صف) (۱) امر کرنے والا۔ حکم دینے والا۔ سردار۔ حاکم (۲) مالدار
 دولت مند (۳) آدمی کے مشہور شاعر۔ شعی امر احمدی کی کاغذ۔ جمع : امرا

امیر الامرا۔ (۱) امیروں کا امیر۔ بہت بڑا رئیس۔ نہایت دولت مند (۲) منقل
 حکومت میں ایک معزز خطاب۔

امیر البحر۔ بحری فوجی بڑے افسر اعلیٰ۔
 امیر المؤمنین۔ مسلمانوں کا سردار۔ خلیفہ وقت۔ اسلام کا حاکم اعلیٰ۔

امیر زادہ۔ امیر کا لڑکا۔ امیر آدمی کی اولاد۔ رئیس زادہ۔
 امیر کو جان پیاری بیٹے کو ایک مہجاری۔ (منقل) امیر کو مرنا اور فقیر کو جینا

پسند نہیں۔

امیر کے پڑوس میں خدا قبر بھی نہ بنائے۔ [منقل] غریب کو امیر کے پڑوس
 میں دکھی ملتا ہے۔ بالدار ہمسایے سے ہر طرح دکھ چھینتا ہے۔

امیر لشکر۔ فوج کا سردار۔

امیر اندہ۔ (ای۔ امی۔ رانہ) (ع۔ صف) امیر کی مانند۔ امیر کی مثل۔

امیر بی (ای۔ سی۔ ری) (ع۔ ایٹ) (۱) سرداری (۲) مالدار۔ دولت مندی۔
 امیر بی اور فقیر کی کی بوجھ لیس برس تک نہیں جاتی [منقل] دولت مندی

اور غریبی کا اثر بڑی مدت میں جاتا ہے۔

امیر بی کا رخا نہ ہے۔ رئیسانہ ٹھاٹ ہے۔

ایمن۔ (ای۔ بین) (ع۔ صف) (۱) امانت دار۔ امانت رکھنے والا (۲) معتد
 ایمان دار (۳) ایک عہدے کا نام۔

ا۔ ل۔

ا۔ ل۔ (س۔ ۱۔ مذ) (۱) بنا۔ بغیر (۲) اور۔ دوسرا (۳) اناج۔ غلہ۔ غذا۔

ا۔ ل۔ بدھا۔ بے دریاغ۔ جس میں چھید نہ ہو۔

ا۔ ل۔ بن۔ نامرافقت۔ بگاڑ۔ رنجیدگی۔ رنجش۔ ناپا جاتی۔

ا۔ ل۔ بچھ۔ (ہ۔ صف) بے وقوف۔ بے عقل۔ نہ سمجھنے والا۔

ا۔ ل۔ بولا۔ رنجش کی وجہ سے آپس میں بات نہ کرنا۔ کھٹ۔

ا۔ ل۔ پانی۔ ا۔ ل۔ جل۔ دانہ پانی۔ کھانا پینا۔

ا۔ ل۔ پڑھ۔ ناخواندہ۔ ا۔ ل۔

ا۔ ل۔ جان۔ آہنی۔ بگناہ۔ نادانق۔

انجان بننا۔ (معاورہ) جلتے بوجھے انجان بننا۔ جلتے ہیستے یہ ظاہر کرنا
 کہ مجھے علم نہیں۔

ا۔ ل۔ جل (تیاگنا) کچھوڑنا۔ کھانا پینا چھوڑنا۔

ا۔ ل۔ جوکھا۔ بنا جوکھا ہوا۔ بنا نولا ہوا۔

ا۔ ل۔ چپت۔ (ہ۔ صف) اچانک۔ یکایک۔ خلاف توقع۔

ا۔ ل۔ داتا۔ روٹی دینے والا۔ آقا۔ مالک۔

ا۔ ل۔ دیکھا۔ (۱) بن دیکھا۔ نادیدہ (۲) مخفی۔ غائب۔

ا۔ ل۔ سمجھ۔ نا سمجھ۔ بے وقوف۔

ا۔ ل۔ سنی۔ (۱) نہ سنی ہوئی (۲) عجیب۔

ا۔ ل۔ سنی کرنا۔ جان بوجھ کر سنی ہوئی بات کو بے سنی کرنا یا ماننا۔

ا۔ ل۔ کاکیرا۔ غلہ کھانے والا۔ انسان۔

ا۔ ل۔ کی۔ جو بات کہنے کے قابل نہ ہو۔ برا بھلا۔

ا۔ ل۔ گنا۔ (۱) بغیر شمار کیا ہوا (۲) شمار سے باہر۔ محل کا آٹھواں مہینہ۔
 ا۔ ل۔ گنا برس۔ مگر کا آٹھواں سال جس میں عورتیں اولاد کے لیے خطرہ محسوس
 کرتی ہیں۔

ا۔ ل۔ گنا مہینہ۔ محل کا آٹھواں مہینہ۔

ا۔ ل۔ گنتمت۔ (ہ۔ صف) جو شمار میں نہ آسکے۔ بے شمار۔ لا تعداد۔

ا۔ ل۔ گھڑ۔ (۱) بن گھڑا۔ بے ڈول۔ ناموزوں۔ ناتراشیدہ۔ بے ڈھنگا۔

(۳) ناشائستہ - آدمیت سے خارج۔ جاہل۔ اناڑی۔ ناتجربہ کار۔ خام۔ بے شکا۔

ان گھڑت بات - بے ٹکی بے ڈھنگی۔ بے میل اور ادل جہول بات۔
ان مل (۱) بے چوڑے میل بے شکاے سریر کا (۲) الگ۔ بیگانہ۔ غیر جنس۔

ان ملا - بے گانہ۔ خود۔ عمل عمل کے نہ ہے۔ جو ملتا نہ ہو۔
ان ملی - بے چوڑ۔ بے ربط کلام۔

ان منا - اُداس۔ سست۔ بے دل۔ بے زار۔
ان متاین - اُداسی۔ بے دلی۔

ان منا ہونا - بیمار ہونا۔ اُداس ہونا۔ بے دلی۔
ان ہول - بے بہا۔ نہایت بیش قیمت۔

ان کیل - بے چوڑ۔ ناموزوں۔
ان نیانی - بے انصافی۔ بے ددوی۔ بے رحمی۔ بے ایمانی۔

ان ہوت - نہایت غریبی۔
ان ہوتا - (۱) نزدھن۔ غریب (۲) اُن ہونا۔ اچھے کا۔

ان ہونی - نہ ہونے والی۔ غیر ممکن۔ ناشدنی۔
ان ہونی ہونی نہیں اور ہونی ہون کا (مثل) نہ ہونے والی بات نہیں ہو سکتی اور ہونے والی ہو کر رہتی ہے۔

ان - [ہ۔ ض] اس کی جمع۔ جمع اور تعظیم کے لیے ہوتے ہیں۔ اشارہ قریب۔
ان آنکھوں سے کیا کیا نہیں دیکھا۔ (ذوق) بہت کچھ دیکھ چکے ہیں۔ بہت تجربہ ہو چکا ہے۔ بہت مصیبتیں بھیل چکے ہیں۔

ان باتوں میں کیا رکھا ہے۔ (محاورہ) یہ باتیں بے فائدہ ہیں۔ بے جگہ ہیں۔ فضول اور بے نتیجہ ہیں۔

ان بے چاروں نے ہڈیٹک کہاں پائی۔ یہ اس قابل کہاں۔ ان کو اتنی عقل کہاں۔

ان نلوں میں نہل نہیں۔ [مثل] بہت بے مروت اور بے فیض ہیں۔ بہت نحس ہیں۔ بہاں کام نہیں سنے گا۔

ان دنوں - آج کل۔ فی زمانہ۔ فی الحال۔
ان مولوں کیا جنگا ہے۔ اس طرح حاصل ہونے کو کچھ جنگا نہیں۔

ان سینک کا بہی بیگہ۔ وہ بھی دیکھا یہ بھی دیکھ۔ [مثل] دنیا کبھی ایک حال پر نہیں رہتی۔ آنکھوں کا کام ہے کہ بڑا ہلجا جو سامنے آئے اُسے دیکھیں۔

انسان کو دکھ سکھ سب برداشت کرنا چاہیے۔
ان - [ہ۔ ض] اس کی جمع۔ اشارہ غمیر کا اشارہ۔ بعید ضمیر جمع غائب۔

ان کی سہی کشا۔ (محاورہ) اُن کی طرف داری کرنا۔
آنا - (ان۔ نا) [ت۔ امث] داہر۔ دودھ پلانے والی عورت۔

آنا دوا والے۔ عمدہ شایہی عملات کی دایتوں کھلائیوں کی سفارش سے جو لوگ فرج میں بھرتی ہو جاتے تھے۔ ان کی وقعت نہ ہوتی تھی اور تختی سے آنا دوا والے کھاتے تھے۔ غیر شریف۔ ایسے دیسے۔

آنا - (ان۔ نا) [ع۔ ض] ہیں۔ جمعیہ منظم واحد۔
آنا البحر - میں سمندر ہوں۔
آنا البرق - میں سبکی ہوں۔

آنا لختی - میں خدا ہوں حضرت منصور جو موت کی حالت میں پکڑ کر اُٹھے تھے اور علماء کے فنزے سے سٹوٹی پر چڑھائے گئے۔

آنا - (ان۔ نا) [ع۔ امث] آشور۔ نینار۔ خودی۔ خودداری۔
آنا بت (اننا بت) [ع۔ امث] خدا کی طرف رجوع کرنا۔ توبہ۔ عاجزی۔

آنا سیریب - (ان۔ نا۔ بتیب) [ع۔ امث] جنوب کی جمع۔ ترکل کی پوری۔ تاپیا۔
آنا سیریب - بال جیبی بارک تاپیاں یا پوری۔ (۲) وہ خاصیت جن کے ذریعے مانتات اور پرکرت چڑھنے ہیں جیسے تیل تپتی ہیں۔

آنا پ ششاپ - (ان۔ نا۔ پ۔ ش۔ نا۔ پ) [ع۔ صف] (۱) اوٹ پٹانگ (۲) انٹ سنٹ۔ آئیں بائیں۔ بکواس۔ اندھا دھند۔

آنا تھ - (اننا تھ) [س۔ صف] (۱) بغیر مالک کا (۲) جن کا کوئی پالنے والا نہ ہو۔ بے سہارا۔

آنا تھ آشرم - [س۔ مذ] شیرخانہ۔ لادارث۔ بچوں کی پرورش گاہ (۲) وہ جگہ جہاں دکھی اور بے سہارا لوگوں کی پرورش ہوتی ہے۔

آنا ٹمی (Anatomy) (اننا ٹ۔ می) [ع۔ امث] علم تشریح الابدان۔ انسانی جسم کی بناوٹ معلوم کرنے کا علم۔

آنا ٹ - (اننا ٹ) [ع۔ امث] آٹنی کی جمع۔ عورتیں۔
آنا ٹاج - (اننا ٹاج) [و۔ اند] غلہ جنس۔

آنا ٹ کا دشن - زیادہ کھانے والا۔ وہ شخص جو کھائے تو زیادہ کھانے کو کھیند کرے۔
آنا ٹ کال نہیں ہے۔ براج کال ہے [مثل] یہ ہنگامی حکومت ہے۔ باعث ہے۔

آنا جیل - (اننا جیل) [ع۔ امث] انجیل کی جمع۔
آنا جیل اربعدہ - مٹی۔ مرقس۔ نوفا اور یوحنا کی چار انجیلیں۔

آنا چیت - (اننا چیت) - (اننا۔ چیت۔ تی) [ق] بے خبری ہیں۔ بے خیالی ہیں۔ استخوان پٹنے ہیں۔

آنا دی - (اننا دی) - (اننا۔ دی) [س۔ صف] جس کی ابتداء ہو مراد خدا تعالیٰ۔
آنا ر - (اننا ر) [ف۔ اند] (۱) ایک میل کا نام (۲) ایک قسم کی آتش بازی۔

آنا ر - (اننا ر) [مذ۔ اند] سُرخ آنکھوں والا لکڑی۔
آنا ر دانہ (۱) سُرخ اناروں کے کھائے ہوئے دانے (۲) ایک قسم کے چانچا۔

آنا ر کا نام۔
آنا ر دانہ بنا ہوا ہے۔ خوب سُرخ ہو رہا ہے۔

آنا ر کسٹ (Anarchist) (اننا ر۔ کسٹ) [انگ۔ اند] انہما پسند حکومت کے نظر و ضبط کا مخالف۔ شخصی سلطنت کا دشمن۔ بے نظمی کا حامی۔

آنا ر کی (Anarchy) (اننا ر۔ کی) [انگ۔ امث] ضبط اور نظام کا فقدان۔ بے نظمی۔ حکومت کا نہ ہونا۔ قانون کا تعطل۔

آنا ری - (اننا ری) [و۔ صف] (۱) انار کے رنگ کا۔ لال (۲) کبوتر جس کی آنکھیں سُرخ ہوں (۳) ایک قسم کا سموسہ۔

آنا ری - (اننا ری) [و۔ صف] نا کھ۔ استخوان۔ ناتجربہ کار۔ بے سلیقہ۔
آنا ری - (اننا ری) [و۔ صف] نا کھ۔ استخوان۔ ناتجربہ کار۔ بے سلیقہ۔
آنا ری کی - حماقت۔ ناتجربہ کاری۔
آنا ری کا سونا مارہ باٹ [مثل] ناتجربہ کار کسی کام سے فائدہ نہیں اُٹھا سکتا۔ بے وقعت کی قیمتیں چیزیں کوڑیوں کے مول جاتی ہیں۔
آنا س - (اننا س) [ع۔ امث] ناس کی جمع۔ بہت سے لوگ۔ آدمی۔

انزوار - گھر میں آنے جانے کے لیے بڑے دروازے کے علاوہ دروازہ - گھر کی چور و روانہ -

انزویان - نیاس سے باہر خفانی اللہ - غائب غلہ -

انزمنتر - جادو - ٹونا - جھاڑ - بھونک -

انتر (انت - ر) (۱-۵-۱) [۱-۱] گڑھی سلسلہ (۲) گانے کا وہ ٹکڑا جو سخانی کے بعد جو (۳) لکڑی پھینکنے کی اصطلاح میں ہاتھ کی ضرب -

انترپی - (انت - ٹری) [۵-۱-۱] [انت -

انترپی میں روپ اور فقیہ میں چھپ [ایشیل] غذا سے رنگ روپ بکن سے اور پوشاک سے بدن کی زیبائش نکلتی ہے -

انترپاں جلنا - (مماورہ) ہمت بھوکا رہنا -

انترپوں کے بل کھولنا - (مماورہ) بہت دن بعد کھانا ملنے پر غروب

پیٹ بھر رکھنا -

انترپوں میں بل بڑانا - (مماورہ) (۱) پیٹ میں درد ہونا (۲) ماٹھے ہنسی کے

پیٹ ڈھکنے لگتا -

انتراع - (ان - رت - راع) (ع - ۱-۱) اکھاڑنا - اکھڑنا - نکال لینا - معزول -

انترساب (ان - ت - ساب) (ع - ۱-۱) [ند] (۱) منسوب کرنا - نسبت دینا (۲)

لگاؤ - تعلق - واسطہ - رشتہ -

انترشار (ان - ت - شار) (ع - ۱-۱) [ند] (۱) پراگندگی - ترتر ہونا - گھبرائے

پریشانی - نرود - نکر (۲) شہوت -

انترصاف (ان - ت - صاف) (ع - ۱-۱) [ند] (۱) انصاف پانا (۲) نصف ہونا

انترظار (ان - ت - ظار) (ع - ۱-۱) [ند] (۱) راہ دیکھنا (۲) آسرا - امید -

انتظار کرنا - (۱) راہ دیکھنا (۲) آسرا رکھنا -

انترظام (ان - ت - ظام) (ع - ۱-۱) [ند] (۱) انتظام - تدبیر - بندوبست (۲)

ترتیب - آرائش (۳) قاعدہ - ضابطہ - جمع : انتظامات

انترظامیہ (ان - ت - ظام - م - یہ) (ع - ۱-۱) [ند] حکومت کا ایک شعبہ مجلس

قانون ساز کے بنائے ہوئے قوانین کو ناک میں نافذ کرتا اور ان پر

عمل کرنا ہے

انترفاع (ان - ت - فاع) (ع - ۱-۱) [ند] (۱) فائدہ اٹھانا - نفع پانا (۲) منافع

فائدہ - آمدنی - حاصل -

انترقاد (ان - ت - قاد) (ع - ۱-۱) [ند] (۱) نقد لینا (۲) رکھنا - نقد کرنا - بیعہ

کرنا - نکتہ چینی کرنا -

انترفاض (ان - ت - فاض) (ع - ۱-۱) [ند] نوٹ دینا - شکست -

انتفاض شرط - شرط توڑ دینا -

انتفاض معاہدہ - معاہدہ توڑ دینا -

انترقال (ان - ت - قال) (ع - ۱-۱) [ند] (۱) مقام تبدیل کرنا - ایک جگہ سے

دوسری جگہ بدلنا - بدلی (۲) موت - وفات - جمع : انقالات -

انترقال اراضی - زمین دوسرے کے نام منتقل کرنا -

انترقال ہی - وہ ہی جس میں انترقال جائداد کا حساب کتاب رہتا ہے -

انترقال جائداد - جائداد کا ایک شخص کے قبضہ سے دوسرے شخص کے

قبضے میں جانا -

اناسی - (ا - نا - سی) [ہ - صفت] ستور نو - اٹھتر کے بعد کا عدد -

انآ لیلہ و انآ الیہ و ارجعون [ع] تحقیق ہم اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف

رجوع کرنے والے ہیں - یہ آیت مصیبت یا کسی کے مرنے کی خبر سن کر

پڑھتے ہیں - مراد سب کو ادھر ہی جانا ہے - سب کو مرنا ہے -

انام (ا - نام) (ع - ۱-۱) [ند] خلقت پیدا کی ہوئی چیزیں مخلوق - دنیا - موجودات -

انامل (ا - نا - مل) (ع - ۱-۱) [ند - صفت] اقلہ کے جمع - آنکھیاں - آنکھوں کے سرے -

انایست (ا - نا - فی - یست) (ع - ۱-۱) [صفت] خودی - پندار - نور - گھنٹہ - خود بینی -

خود شنائی - غیر ذمہ داری مطلق العنانی -

انآ و نسر (Announcer) (انآ و ن - سر) [انگ - ۱-۱] [ند] منادی یا

اعلان کرنے والا -

انبار (ا - م - بار) (ف - ۱-۱) [ند] ڈھیر ذخیرہ - تودہ -

انباری (ا - م - با - ری) (۵-۱) [صفت] عاری - ہودہ - باغی کی کاٹھی -

انبار (ا - ف - مذ) شریک - ساتھی - سمف [صفت] سموت - سوکن -

انبان (ا - م - بان) (ف - ۱-۱) [صفت] پکا چمڑہ - دباغت کی ہوئی کھال (۲)

فیروز کی نہیں - خرچین -

انبساط (ا - م - ب - ساط) (ع - ۱-۱) [صفت] خوشی - کھلنا - پھیلنا - شادمانی -

انبعاث (ا - م - ب - عا) (ع - ۱-۱) [ند] اٹھنا - کھڑا ہونا - برائگی - ہونا -

آنپوہ (ا - م - بوہ) (ف - ۱-۱) [ند] مجمع - بھید - ازاد ہام - جوم - کثرت - زیادتی

ہمتا -

انبہ (ا - م - بہ) (ف - ۱-۱) [ند] آم - ایک مشہور میوے کا نام -

انبیا (ا - م - ب - یا) (ع - ۱-۱) [ند] نبی کی جمع - رسول - پیغمبر -

انبیا (ا - م - ب - یا) (۵-۱) [صفت] کبری - بچا آم جس میں جالی نہ پڑی ہو (۲)

چھوٹا آم -

انبیق (ا - م - ب - یق) (ع - ۱-۱) [ند] جبکہ - وہ برتن جس میں نالی رکھ کر عرق کشید کرنے پر

اچھڑنا (آن - پڑنا) (ق - یص) (۱) پھینکا (۲) پانا -

انت [س - ۱-۱] [ند] اخیر - خاتمہ - انجام -

انت بڑے کا بڑا - انت بھلے کا بھلا - [مثل] بڑے کا انجام بڑا اور اچھے

کا انجام اچھا ہوتا ہے -

انت بگڑنا - انجام خراب ہونا -

انت بھلا سو بھلا - [مثل] جس کا انجام اچھا ہو وہی کام اچھا ہے -

انت سے کال - آخری وقت - مرنے وقت -

انآ لیس (ا - ن - نا - لیس) [ہ - صفت] آئیں اور نو - اڑتیس کے بعد کا عدد -

انتباہ (ان - ت - باہ) (ع - ۱-۱) [ند] آگاہی - خبردار ہونا - خبردار کرنا - جمع :

انتباہات -

انتخاب (ان - ت - خاب) (ع - ۱-۱) [ند] چناؤ - پسند کرنا - چھانڈنا - جمع : انتخا

انتر (ان - تر) (۵-۱) [ند] (۱) فاصلہ - دوری - فرق (۲) دو چیزوں کے بیچ

کا جگہ (۳) دل - خاطر - (۴) بھید - لڑ -

انتر بھومی - زمین کا بالکل اندر فی حصہ - پانا -

انتر (مید) میدی - دوریوں کے درمیان کی زمین - دو آب -

انتر جامی (۱) ہر چیز کا اندر - روح اعلیٰ (۲) ہر ماہینہ بھومی - دانے لارہ واقعہ حال

انتقال ذہنی - ایک بات سے دوسری بات کی طرف ذہن کا جانا۔

انتقال زمین - زمین کی تبدیلی۔ زمین در زمین۔ گردو در گردو۔

انتقال کرنا - مرنا۔ فرزند ہونا۔

انتقام (ان - بت - تام) [ع - ۱ - مذ] بدلہ عوض۔ پاداش۔ جمع: انتقامات

انتقاما (ان - بت - تا - ساند) [ع - صفت] بدلہ لینے کے طور پر۔

انتقامی (ان - بت - تامی) [ع - صفت] انتقام سے منسوب۔ انتقام سے متعلق۔

انتہا (ان - بت - ہا) [ع - ۱ - مثن] اخیر۔ حد۔ سر۔ انجام۔ خاتمہ۔

انتہا پسند کسی کام یا چیز کی انتہا چاہنے والا۔ اعتدال پسند کی ضد۔

انتہا پسندی - انتہا پسند کرنا۔

انتہا کا - پرے درے کا۔

انتہائی (ان - بت - یا - ای) [ع - صفت] آخری۔

انتہائی نقطہ - وہ نقطہ جو جوہر و مقابلہ کے علم میں خطوط کے ختم کرنے والے ہو۔

انتہی (ان - تی) [ع - ۱ - مثن] کان میں پھینے کا عورتوں کا ایک زیور۔

انتہیس (ان - تی - س) [ع - صفت] بیس اور نو۔ اٹھائیس کے بعد کا عدد۔

آٹھا (ان - ٹا) [ع - ۱ - مذ] (۱) ایون کی بڑی گولی (۲) سوت یا ریشم کا لچھا (۳)

بڑی کوڑی (۴) بلیڈرڈ (۵) اڈپر کا کوٹھا۔

انشاچت (۱) پیچھے کے بل (۲) نشے میں چور۔ بدست۔

انشاچت ہونا (معاورہ) پیچھے کے بل پڑنا (۲) نشہ میں سدھ نہ رہنا۔

انشاغفیل - بے ہوش۔ بے سدھ دست۔

انشاغفیل ہونا۔ نہایت مدہوش ہونا۔

انشاکھر (۱) وہ گھر جس میں گولی یا جوئے کا کھیل کھیلا جائے۔ بیلو کھیلنے کی جگہ

انٹر (Inter) (ان - ٹر) [انگ - صفت] درمیانی۔

انٹرسٹ (Interest) [انگ - مذ] دلچسپی (۲) فائدہ۔ سود

انٹرمیڈیٹ (Intermediate) درمیانی درجہ۔ وسطی درجہ

ایفٹ - اے۔

انٹرنس (Entrance) [انگ - مذ] ابتدا۔ شروع۔ دروازہ۔

انتہائی داخلہ - وہ امتحان جسے پاس کرنے کے بعد طالب علم کالج میں داخلہ لے سکتا ہے۔

انٹرنیشنل (International) بین الاقوامی۔

انٹرنیشنل لا (International Law) بین الاقوامی قانون

انٹروڈیوس (Introduce) (انٹ - رو - ڈیوس) [انگ - مذ]

تعارف۔ ملاقات۔

انٹرویو (Interview) (ان - ٹر - ویو) [انگ - مذ] (۱) باضابطہ

ملاقات (۲) اخبار کے نمائندے کا کسی سے مل کر سوال جواب کرنا

(۳) اخبار۔ ریڈیو۔ ٹیلیویشن یا کسی انتخابی ادارے کے ارکان کا سوال

کے ذریعے کسی کے نظریات و خیالات معلوم کرنا۔

انٹ کا سنڈل - (انٹ - کا سنڈل) [ع - صفت] اوٹ پٹانگ۔ بے ہودہ

انٹی - (ان - ٹی) [ع - ۱ - مثن] (۱) دو انگلیوں کے بیچ کی جگہ۔ گھٹائی (۲)

کانٹھ - گرہ (۳) دھوئی کا وہ حصہ جو کر کے گرد باندھتے ہیں (۴) سوت

یا ریشم کی لچھی۔

انٹی (باز) مار (۱) جواریوں کی اصطلاح میں وہ شخص جو انگلیوں کی درمیانی جگہ

میں کوئی چیز چھپا لے (۲) چالاک۔ فریبی۔ دغا باز۔

انٹی پر چڑھ جانا۔ ٹا پور میں آ جانا۔ دھوکہ میں آ جانا۔ دام میں آنا۔

انٹی دینا۔ کر دینی دینا۔ کر دینا پنا۔

انٹی رکھنا۔ (۱) چھپا رکھنا۔ دبا رکھنا۔ ظاہر نہ ہونے دینا۔ ایک ہاتھ کی

دو انگلیاں ایک دوسرے پر چڑھانا۔

انٹی کرنا۔ (۱) سوت لپیٹ کر انٹی بنانا (۲) کسی کا مال اٹا لینا۔

انٹی مارنا۔ جو اکیلے وقت کوڑی کو انگلیوں کے بیچ میں چھپا لینا (۲)

آنکھ بچا کر دوسرے کی چیز غائب کر دینا۔ دھوکہ دے کر چیز اٹا لینا

(۳) کم تو نا ڈنڈی مارنا۔

اٹلیا۔ (ان - ٹی - یا) [ع - ۱ - مثن] گھاس یا پتی لکڑیوں کا بندھا ہوا ٹھکانا

چھوٹا گھٹا۔ ٹولا۔

اٹلیانا۔ (ان - ٹی - یا - نا) [ع - مص] (۱) انگلیوں کے بیچ میں چھپانا۔ سفیلی

میں چھپانا (۲) چاروں انگلیوں میں لپیٹ کر ڈورے کی بندھی بنانا (۳)

گھاس یا پتی لکڑیوں کا مٹھا بنا دھنا (۴) غائب کرنا۔ بھگم کرنا۔

انٹی (ان ٹا) [ع - ۱ - مثن] عورت۔ زن۔ جمع: انٹات

انٹیین (ان - ٹی - یین) [ع - ۱ - مذ] ہر دو۔ دونوں جیسے۔

انجام (ان - جام) [ع - ۱ - مذ] حاجت روا ہونا یا کرنا۔ مطلب پورا ہونا۔

انجام (ان - جام) [ع - ۱ - مذ] نیت۔ حاتمہ۔ آخر۔ انتہا۔

انجام بخیر ہونا۔ (۱) نتیجہ اچھا نکلنا۔ مال کار اچھا ہونا۔ خاتمہ اچھا ہونا (۲)

ایمان کے ساتھ کرنا۔

انجام پانا۔ تکمیل کو پہنچنا۔ پورا ہونا۔

انجام پر پہنچنا۔ ختم کے قریب پہنچنا۔

انجام دینا۔ بجا لانا۔ پورا کر دینا۔ مکمل کرنا۔

انجام سوچنا۔ دورانہ بندی کرنا۔ عاقبت بندی کرنا۔ نتیجے پر نظر کرنا۔ اخیر کا خیال رکھنا

انجام کار۔ آخر کار۔ آخر کو۔ الغرض نتیجہ۔

انجام کو پہنچانا۔ پورا کرنا۔ ختم کرنا۔

انجام کو پہنچانا۔ مکمل ہونا۔ مکمل ہو جانا۔

انجام (ہو جانا) ہونا۔ ختم ہو جانا۔ پورا ہونا۔ تمام ہونا۔ مرنا۔

انجذب (ان - جب) [ع - صفت] (۱) بڑا شریعہ (۲) لونڈی بچہ۔

انجذاب (ان - جب - ذاب) [ع - ۱ - مذ] جذب کرنا یا ہونا۔

انجربچہ (ان - جرب - بچہ) [ع - ۱ - مذ] بون کے جوڑ۔ ہڈی پسی۔

انجربچہ ڈھیلے ہو جانا (معاورہ) اعضا کا تھک جانا۔ مصلح ہو جانا۔

انجیل - (ان - جیل) [ع - ۱ - مذ] دعا کی طرح طے ہونے کا تھہ۔ لٹ۔

انجلی - (ان - جی - لی) (۱) ادکھ۔ چتہ (۲) پس بھر (۳) اناج کی ڈھیری میں

خمیرات کے لیے نکالا ہوا اناج۔

انجلی نکالنا۔ (معاورہ) کسان غلہ تیار کرنے کے بعد فقروں اور مالی کوکچہ

بھر کر جو اناج دیتے ہیں اسے انجلی نکالنا کہتے ہیں۔

انجم - (ان - جم) [ع - ۱ - مذ] غم کی جمع۔ ستارے۔

انجم شناس۔ نجومی۔ ستاروں کے حساب سے پیشین گوئی کرنے والا۔ نجوم۔

انجامد - (ان - ماد) [ع - ۱ - مذ] جمن بھوس ہونا۔

انجن (An-jin) (من - ا - منت) (۱) مجلس محفل - سہا (۲) کبھی
انجن - (An-jin) (ہ - ا - ند) سہمہ - کاجل -
انجن سار - سہمیں -
انجن لگانا - سہمہ لگانا -

انجن (Engine) (ان جن) (انگ - ا - ند) مشین - بھاپ کی ٹکی - آلہ
انجن ڈرائیور (Engine Driver) انجن چلائے والا -
انجن ہاری - (An-jin) (ہ - ا - ری) (س - ا - مت) آنکھ کی ٹیک کے کنارے
کی پھٹی - پلنی - گمانی - گمانی - (۲) ایک قسم کی ٹکی جسے کھاری یا
پلنی بھی کہتے ہیں -

انجیر - (An-jin) (ف - ا - ند) ایک مشہور میٹھا اور اس کا پھل جو گورکھ کے برابر
اور کھانے میں میٹھا ہوتا ہے -
انجیل - (An-jin) (ع - ا - مت) (۱) قرآن - خوش خبری (۲) عیسائیوں کی مقدس
کتاب - جمع : اناجیل -

انجینیر (Engineer) (ان - جی - نی - ٹر) (انگ - ا - ند) تعمیرات یا
مشینوں کا کام جاننے والا -

انچ (Inch) (انگ - ا - ند) فٹ کا بارہواں حصہ -

انچارج (Incharge) (ان - چارج) (انگ - ا - ند) وہ شخص
جس کے انتہام میں کوئی چیز یا انتظام ہو (۲) قائم مقام -

انچاس - (An-jas) (ہ صفت) چالیس اور نو - اٹھالیس کے بعد کا عدد -
انچاقر (An-jas) (ن - ا - س) (ن - ا - س) (ن - ا - س) (ن - ا - س) (ن - ا - س)
انچانی - (An-jas) (ہ - ا - مت) بلندی -

انچیت (An-jit) (ن - جیت) (ن - جیت) (۱) بے کار (۲) اچانک (۳) بیکاپ - بیکاری -
انچہ (An-jit) (چہ - ا - ند) (۱) جادو کے بول منتر (۲) حرف (۳) بچھو (ق)
بچھو پڑھ کے مارنا - جادو کرنا - منتر پڑھ کر بچھو کرنا -

انحراف (An-jas) (ح - راف) (ع - ا - ند) (۱) پھر جانا - برخلاف ہونا (۲) انکار -
مخالفت - نافرمانی -

انحراف معاہدہ - اقرار سے پھر جانا -
انحصار - (An-jas) (ح - صار) (ع - ا - ند) منحصر ہونا گھرنے یا محصور ہونا - سامان -
موقوف ہونا -

انخطاط - (An-jas) (ح - طاط) (ع - ا - ند) کم ہونا گھٹنا (۲) کمی گھٹاؤ - منتر -
انخال - (An-jas) (ح - لال) (ع - ا - ند) کسی مرتبہ شے کے عناصر ترکیبی کا
انگ انگ ہونا -

انخال - (An-jas) (ح - لا) (ع - ا - ند) (۱) گمانا ہونا (۲) خالی کرنا -
اندا - (An-jas) (ان - داسا) (ع - ا - ند) ہمت بڑا اور گرا گنداں -

اندا - (An-jas) (ان - داسا) (ع - ا - ند) (۱) غیاس (۲) طریقہ - وضع - طور طریق (۳)
معتاد نگار (۴) اعتدالی - مقدار معین (۵) نمونہ پیمانہ -

انداز اڑانا - (ع - ا - ند) کسی کا ڈھنگ سجد لینا کسی کی وضع اڑانا کسی کے
طرے پر چلنا سیکھنا - حاصل کرنا -

انداز بیٹی - اپنی خوب صورتی اور جمال ڈھال پراترے والی عورت کو
کہتے ہیں

انداز حسرتانہ - (ف - ند) شہتاشوں کے طریق -

انداز سے باہر ہونا - (ع - ا - ند) حد سے بڑھ جانا حیثیت سے نکل جانا -
انداز ملنا - (ع - ا - ند) اٹکل ہو جانا - تخمینہ ہو جانا (۲) طرز ملنا -

انداز نکلنا - (ع - ا - ند) شان یا بی جانا - ڈھنگ نکلنا -

اندازہ - (An-jas) (ان - دا - زہ) (ف - ا - ند) (۱) اٹکل - تخمینہ (۲) نمونہ (۳) مانند
(۴) حد اعتدالی - پیمانہ (۵) مقدور -

اندازہ پانا - (ع - ا - ند) اٹکل ملنا - تخمینہ ہونا -

اندازہ کرنا - (ع - ا - ند) تخمینہ کرنا - امتحان کرنا - جانچنا -

اندازم - (An-jas) (ف - ا - ند) جسم - بدن - رنگ -

اندازم نہانی - شرم گاہ - فرج - ستر -

اندازہ (An-jas) (ف - ا - ند) (۱) بیچ - درمیان - اندرون - بھیتے - باہر کی ضد -
انداز سانس انداز باہر کی سانس باہر - (مثل) دہشت یا ہاتھ سے
شرم دنا منت یا انتہائی حیرت سے سانس رک جانا -

اندوار - اندر کی طرف - اندر کے رخ -

اندروالا - (An-jas) (ول - جی - من) (۲) بچہ جو رحم مادر میں ہو -

اندرا - (An-jas) (در - ا - ند) (۱) چترانی - چالانی (۲) دیوتاؤں کا راجہ (۳) ہشت
کاراجہ (۴) میندر برسانے والا دیوتا (۵) رعد - گرج - سہلی -

اندرا جال - فریب - دھوکا طلسم - شہدہ - چیل -

اندرا جو - ایک دشت کا پھل جو جو کے ہم شکل ہوتا ہے -

اندرا کا اکھٹرا - راجہ اندر کی محفل -

اندرا لچ - (An-jas) (ل - ا - ند) درج ہونا - لکھا جانا - داخل ہونا -

جمع : اندراجات -

اندرا لٹن - (An-jas) (ل - ا - ند) (۱) منت - حنظل - پھر پھیندنا اور خولنے کی
شکل کا ایک پھل جو پھینے میں خوب صورت اور رز سے بہت تلخ ہوتا ہے -

اندرا لٹن پھل دیکھنے کا سبب چکھنے کا نہیں ہے - (مثل) ظاہر اچھا ہے باطن
خراب صحبت کے لائق نہیں صورت اچھی ہے سیرت خراب ہے -

اندرا لٹن کا پھل (۱) ایک کڑوا پھل - (۲) بد مزاج - تند مزاج (۳) لڑائی
کرنے والا - دشمنی ڈالنے والا - دلوں میں کدورت پیدا کرنے والا -

اندرا سا - (An-jas) (در - سا) (ع - ا - ند) ایک مٹھائی جو چلوں کے آگے کو شکر میں
ملا کر اور گھی میں تل کر بناتے ہیں -

اندرون - (An-jas) (ان - درون) (ف - ا - ند) (۱) اندر - بیچ - درمیان (۲) باطن -
اندرون خانہ - گھر میں - باہم - آپس میں -

اندرونی - (An-jas) (ان - درونی) (ف - ا - ند) (۱) اندر کی - داخلی -

اندوری - (An-jas) (ان - دری) (ع - ا - ند) (۱) احساس - ادراک کا آلہ جو اس قسم (۳) عضو
تناسل - اندام نہانی (۴) خواہش نفسانی -

اندفاع - (An-jas) (ان - د - فاع) (ع - ا - ند) دفع کرنا - دُور ہونا -

اندک - (An-jas) (ان - دک) (ف - ا - ند) کم - ذرا - ٹھوٹا -

اندکار - (An-jas) (ان - دک) (ف - ا - ند) اندھیرا -

اندمال - (An-jas) (ان - مال) (ع - ا - ند) (۱) زخم بھرنا (۲) تسلی - اطمینان -

اندوختہ - (An-jas) (ان - دوختہ) (ف - ا - ند) جمع کیا ہوا - بچا ہوا - پس انداز -

اندوز - (ان - دوز) [ف] جمع کرنے والا - مرکبات کے آخر میں لاسختے کے طور پر آتا ہے جسے لطف اندوز۔

اندوہ - (ان - دوہ) [ف - اند] رنج - غم (۲) فکر - تردد۔

اندوہ ربا - [ف صفت] غم مٹانے والا - دکھ دور کرنے والا۔

اندوہ گیس - رنجیدہ - مغموم۔

اندوہ ناک - رنج سے بھرا ہوا ٹیناک۔

اندھا - (ان - دھا) [ہ - صفت] (۱) بغیر آنکھ کا جس کی آنکھوں میں روشنی نہ ہو جسے کچھ نہ دکھائی دیتا ہو - کور - نابینا (۲) کچھ کر کام نہ کرنے والا۔

اندھا دھند چلنے والا (۳) غیر شفاف - دھندلا (۴) نادانقہ -

بے وقوف۔

اندھا آبلتہ - وہ بیشک جس میں شکل صاف نہ دکھائی دے - دھندلا شیشہ۔

بے خبر جاہل۔

اندھا اندھا جلنا - (مجاورہ) کچھ بھی کسی روشنی دینا - مدغم روشنی دینا۔

اندھا ہانٹے ریوڑیاں ہر پھیر کے اپنیوں ہی کو شے [مثل] اپنے شہزادوں کو بے طرح زیادہ فائدہ پہنچانے والے کو کہتے ہیں۔

اندھا ہنگلا - گھبراہٹ میں بدسلوکی سے کام کرنے والا۔

اندھا بنانا - آنکھیں ڈھول ڈالنا بیوقوف بنانا - دھوکہ دینا۔

اندھا بننا - جان بوجھ کر کسی بات بردھان نہ دینا - دانستہ دھوکا کھانا۔

اندھا بھینسا - (۱) لڑکوں کا ایک ٹیمبل جس میں ایک لڑکے کی آنکھیں بند

کرنے کے دوسرا لڑکا کر پھیلا کر پھیلا دیا جاتا ہے۔ باقی لڑکے باری باری اس کے پیچھے ہونے لگتے ہیں۔ سوار لڑکا پیچھے والے سے نکلنے والے لڑکے کا نام

دریافت کرنا جاتا ہے۔ اگر صحیح نام بتا دیتا ہے تو پوچھنے والا بھینسا

بتاتا ہے اور نام بتانے والا اس پر سوار ہوتا ہے (۲) بدراہ اور اجداد کی

اندھا بے ایمان - (مفولہ) نظر نہ آنے کے باعث ڈر رہنا ہے کہ لوگ

اسے دھوکا دیں گے - اس لیے اس کا ایمان درست نہیں رہتا۔

اندھا پن - (۱) ضعیف بصارت - نظر نہ آنا - بے بصیری - (۲) جہالت

ناواقفیت - بیوقوفی - اجہتی پن۔

اندھا تپ تپانے جب دو آنکھیں پائے - اندھا دیکھنے تو نہیں لے۔

[مثل] کام ہو جانے تو جا نہیں - غرض مند کو اس وقت اطمینان ہو

جب اس کی غرض پوری ہو جاتی ہے۔

اندھا جانے آنکھوں کی سار [مثل] آنکھوں کی تدر اندھا ہی جان سکتا ہے

اندھا داربار - برادرانہ جس میں ظلم و ستم بہت ہوتے ہیں۔

اندھا دھند - (۱) بڑا اندھیرا (۲) اندھیر ظلم گروہ (۳) بے سوچے سمجھے

بے احتیاطی سے (۴) بے ٹھکانے سے بے حساب۔

اندھا دھند لٹانا - (مجاورہ) بے دریغ خرچ کرنا۔

اندھا دھند مچنا - (مجاورہ) ظلم کا دوسرا ہونا - بے انصافی ہونا۔

اندھا دیدہ - یادہ چراغ جو کم اور ادا ہوتا ہے - دھندلی روشنی دینے والا چراغ۔

اندھا راجہ جو پینٹ نکری - [مثل] ظالم اور بے وقوف بادشاہ کی بابت

کہتے ہیں جو ملک میں انتظام نہ کر سکے۔

اندھا کرنا - (مجاورہ) نابینا کر دینا (۲) جوش اور شوق سے بدحواس کرنا۔

عقل پر پرہہ ڈال دینا۔

اندھا کنواں (۱) وہ کنواں جس میں پانی نہ ہو (۲) لڑکوں کا ایک کھیل۔

اندھا کیا جانے (سبب) لالے کی سہارے [مثل] جس میں تیز کا مادہ

ہی نہ ہو۔ وہ کسی چیز کی قدر کیا جانے۔

اندھا کیا چاہے دو آنکھیں - [مثل] ضرورت مند ہمیشہ اپنی حاجت مانی

چاہتا ہے۔

اندھا گائے بہرا بجائے [مثل] نانا نابل لوگوں کی مجلس - نالائقوں کا مجمع

بے وقوفوں کی سو سرائی۔

اندھا گھوڑا - سادھو فقیر کو مٹانے کو کہتے ہیں۔

اندھا گیا سگائی کو آپ کو کہ بھائی کو - [مثل] خود غرض کو اپنا کام

جی مقدم ہوتا ہے - دوسرے کی ضرورت کا خیال نہیں رکھتا۔

اندھا کلا ٹوٹی مسیحا [مثل] ناقص کو ناقص ہی چیز ملتی ہے۔

اندھا ہونا - (مجاورہ) (۱) نابینا ہونا (۲) گمراہ ہونا (۳) نشہ یا عیش جلائی میں مبتلا

ہونا (۴) مغرور ہونا (۵) دیکھ کر نہ جلنا سب سے دیکھے بھالے کام کرنا۔

اندھوں میں کانا راجا - [مثل] بے وقوفوں میں ذرا عقل رکھنے والا ہی

لائق سمجھا جاتا ہے۔

اندھے حافظ کالے راجا - [مثل] مذاق سے اندھے مسلمان کو حافظ اور

کالے کو راجا کہتے ہیں۔

اندھے کو اندھا راستہ کیوں کرتا ہے - [مثل] جو خود گمراہ ہو۔ وہ

ادوں کی کیا رہبری کر سکتا ہے۔

اندھے کو رات دن برابر ہے - [مثل] نافع اور جاہل اچھے بھے

میں تیز نہیں کر سکتا۔

اندھے کی جور و کا اندھی - [مثل] اس موقع پر بولتے ہیں جب کوئی

شخص اپنی چیز کی اچھی طرح حفاظت نہیں کر سکتا۔

اندھے کی داد نہ فریاد اندھا مار بیٹھے گا - [مثل] معذرت کا کوئی جرم

قابل سزا و ملامت نہیں مجبور شخص کی عقلی جرم نہیں ہے (۲) بچوں

کا ایک کھیل ہے۔

اندھے کی (کڑھی) لاٹھی - (۱) سہارا - آسرا (۲) وہ لڑکا جو کئی لڑکوں میں

بچا ہوا - کلونا لڑکا - بڑھاپے کا سہارا۔

اندھے کے آگے روئیے اپنے بھی نہیں کھدیتے - [مثل] نااہل کو

فیصحت کرنا مفت کی درد سہی ہے۔

اندھے کے ہاتھ بندھ لگتا - [مثل] کسی شخص کو اس کی حیثیت یا ایالت

سے بڑھ کر کوئی جرم مل جاتا۔

اندھے گھوڑے پر سوار کرے - (تھیلر کا کلمہ) جوتا پناہ سے

اندھا را - [ق - اند] اندھیرا۔

اندھا ری - [ن - اند] پچھو کٹ - پلنگ کا پردہ۔

اندھا رہائی - (اندھ - با - ای) [س صفت] نیز جو اس میں گرد کی وجہ سے کچھ دکھائی

نہ دے - آندھی - طوفان - طوفان باد۔

اندھ کار - (اندھ - کار) [و - اند] آندھی کا طوفان - طوفان گرد و بار۔

اندھ کاری - (اندھ - کا - ری) [س - امث] ایک لاکھی - بیروں راگ کی

پانچ رتوں میں ایک۔

اندھ کوٹری (اندھ - گھوپ - ٹری) [ہ-صف] جس کے دامع میں قتل نہ ہو۔ اچن - نا بچھ - بے ذوق۔

اندھی (ان - دھی) [ہ-صف] آنکھوں سے معذور عورت۔ تا بینا عورت۔ اندھی آنت - زائد آنت۔ ناقض آنت جو بڑی آنت کے اوپر لگی ہوتی ہے (Appendicitis) نیز بچھے الثباب زائدہ۔

اندھی جیسے کتا کھائے۔ [ایشل] بد سلیقگی اور بچہ بچہ کے موقع پر کتنے ہیں اندھی سرکار۔ ایسی حکومت جس کا انتظام برا ہو۔ ناقصاف حاکم نظام بادشاہ۔ اندھیار۔ (اندھ - یار) [ہ-ا-ہ] اندھی تاریکی۔

اندھیارا (اندھ - یار) [ہ-ا-ہ] اندھی (۲) دھندلا پن۔ دھند۔

اندھیاری (اندھ - یاری) [ہ-ا-ہ] اندھیاری - تاریکی۔

اندھیاری کوٹری۔ (۱) اندھیار چھوٹا کرہ (۲) سیٹ۔ کوکھ۔

اندھیاری گچی کچور [ش] ہر وقت حفاظت اور احتیاط کرنی چاہئے۔

اندھییر۔ (ان - دھییر) [ہ-ا-ہ] (۱) دھندلے غصب۔ آنت (۲) بے انصافی بد نظمی (۳) دغا - فریب۔ بے ایمانی (۴) سیاسی - تاریکی۔

اندھییر چھانا۔ اندھیار ہو جانا یا سیاہی پھیل جانا۔ بد نظمی کا دور دورہ ہونا۔

اندھییر ڈھانا۔ کمال ظلم کرنا۔

اندھییر کرنا۔ بے انصافی کرنا۔ ظلم کرنا۔

اندھییر کھانا (۱) حساب کتاب اور کاروبار میں گڑبڑ (۲) سخت بد معاملگی ظلم

اندھییر چھانا۔ ظلم و ستم کرنا۔ آفت برپا کرنا (۲) لوٹ جانا (۳) بے انصافی کرنا۔

اندھییر ٹھوڑی جو پٹ را جا ملے سیر بھاگی ٹکے سیر کھا جا [ش] انا انصاف

حاکم بے پروا حکومت۔ بے قانون بادشاہت۔ جہاں حاکم کی بے پڑائی

سے اندھا دھند لوٹ پھری ہو۔

اندھییر ہونا۔ بے حد تاریکی ہونا (۲) ظلم ہونا۔ ناقصافی ہونا۔

اندھییرا۔ (ان - دھییر) [ہ-ا-ہ] اندھا اچالے کی ضد۔ تاریکی۔ سیاہی۔

اندھییرا جھک آنا۔ تاریکی بڑھ جانا۔

اندھییرا چھانا۔ تاریکی ہو جانا۔

اندھییرا کرنا۔ روشنی کو روکنا۔ چراغ گل کرنا۔

اندھییرا کھپ۔ نہایت تاریکی۔ ایسا اندھیار جس میں کچھ نہ سوجھے۔

اندھییری۔ (ان - دھییر) [ہ-ا-ہ] (۱) تاریکی سیاہی (۲) تاریکی سیاہ

(۳) چورے یا کپڑے کا پردہ جو شری گھوڑے کی آنکھوں پر باندھ

دیتے ہیں۔

اندھییری (جھکتنا) چھانا۔ (محاورہ) تاریکی چھانا (۲) کالی کھٹا کے سبب

اندھییرا ہو جانا۔

اندھییری ڈینا (محاورہ) گھوڑے کی آنکھوں پر پردہ ڈالنا (۲) کسی شخص کی

آنکھوں کو ڈھک کر اس کی گت بنانا۔ مکمل اڑھانا (۳) دھوکا دینا۔

فریب دینا۔

اندھییری ڈالنا۔ گھوڑے کی آنکھوں پر پردہ ڈالنا۔

اندھییری رات۔ تاریک رات۔

اندھییری کوٹری۔ تاریک کوٹری۔ جسم کا اندرونی حصہ۔

اندھییرے اچالے۔ اوپر سے۔ موقع بے موقع۔ وقت بے وقت

اندھییرے گھر کا اچالا چراغ۔ [ش] اکلوتا بیٹا۔ گھر کا چراغ (۲) نہایت

پیارا جس سے گھر کی رونق اور آزادی ہو۔

اندھییرے مٹنہ۔ بہت سویرے۔ ترش کے ہی۔ علی الصبح۔

اندیش۔ (ان - دیش) [ف] سوچنے والا۔ فکر کرنے والا۔ مرکبات کے آخر میں

لاحتے کے طور پر آتا ہے جیسے ڈور اندیش۔

اندیشیہ۔ (ان - دیش) [ف] (۱) مذکر سوچ۔ ترد (۲) خوف۔ کھٹکا۔

اندیشیہ کرنا۔ فکر کرنا۔ سوچنا۔ خیال کرنا (۲) ڈنا۔ خوف کرنا۔

اندیش ناک۔ اندیشیہ ناک۔ پرخصل۔ خوف ناک۔

انڈا۔ (ان - ڈا) [ہ-ا-ہ] (۱) بیضہ۔ مادہ پرند یا جانور کے جسم سے نکلا ہوا

اور سخت چھلکے سے ڈھکا ہوا سیال مادہ جس میں نئی زندگی کے جراثیم

ہوتے ہیں۔

انڈا اچھانا۔ (محاورہ) انڈا بیٹنے کی غرض سے کھنا۔

انڈا کھٹکنا۔ (محاورہ) انڈا اچھوٹا۔ انڈے کا توڑنا جو بچہ نکلنے کی علامت ہے۔

انڈا گندہ ہونا۔ انڈے کا خراب ہو جانا۔

انڈا نیم پرشت۔ آدھا تلا ہوا انڈا۔

انڈوں پر ہے۔ انڈے سے ہے۔ انڈے سے رہی ہے۔

انڈے اڑانا۔ جھوٹ بولنا۔

انڈے بول میں شے کچھو میں [ش] کوئی چیز کہیں اور کوئی کہیں ہونا۔

بد انظامی۔ ناقابلیت۔

انڈے پٹے۔ لڑکے کے بے آل اولاد۔

انڈے سینا۔ انڈوں سے بچے نکالنے کے لیے پرندوں کا انڈوں پر

بیٹھ کر انھیں گرمی پہنچانا۔

انڈے سیوے۔ ناخیز اور کو سے بچے کھائیں [ش] محنت کوئی

کرے خیر کوئی اڑائے۔

انڈے سیوے کوئی بچے کیوے کوئی [ش] ایک محنت کرے دوسرا نڈا اچھا

انڈے کا ستارا۔ گھی میں تلا ہوا خالی انڈا۔

انڈے کا شہزادہ۔ وہ شخص جو کبھی گھر سے باہر نہ نکلا ہو۔ ناجرہ کار۔

ناداقت۔ بھولا بھالا۔

انڈے لڑانا۔ ایک قسم کا جوا۔ جو ایک قسم کے انڈوں کو لڑا کھیلنا ہوتا ہے۔

انڈے ہوں گے تو نیچے بہت ہو دیں گے [ش] جڑا تم رہے گی

تو سر سبز ہو ہی جائے گی۔ درخت سلامت ہے تو پھول کی کیا کمی۔

انڈر ہنڈ۔ (انڈ - ہنڈ) [ہ-صف] بے سرو پا۔ اوٹ پٹانگ۔ اناپ شتاب۔

انڈر (Under) (ان - ڈر) [انگ - تابع فعل] (۱) نیچے۔ سخت۔

زیر (صف) (۱) ماتحت۔ (۲) نائب۔

انڈر آرم (Under Arm) (کرکیٹ) گیند جو ہاتھ نیچا کر کے پھینکی جاتی

ہے۔ (۲) ٹینس) اسٹروک جو ہاتھ نیچا کر کے مارا جاتا ہے۔

انڈر سکرٹری (Under Secretary) نائب مسند۔

انڈر گراؤنڈ (Underground) (۱) زیر زمین۔ زمین دوز۔

(۲) دپوش پھپھیا ہوا۔

انڈریویر (Underwear) زیر جامہ، باجامہ وغیرہ کے نیچے پہننے کا کپڑا۔
 انڈر لانا۔ (انڈر لانا) (ہ مص) اٹھلانا۔ چمیل۔ سٹوخیاں کرنا۔
 انڈل پڑنا۔ (انڈل۔ ڈل۔ پڑنا) (ہ مص) گر پڑنا۔ انڈ جاننا۔
 انڈرنٹ (Indent) (ان۔ ڈنٹ) (انگ۔ ا) مذ] سرکاری تحریریں
 سامان رسد کا مطالبہ ہو۔
 انڈوا۔ (ان۔ ڈو۔ او) (ہ۔ ا) مذ] کنڈلی کپڑے یا بان کا حلقہ جسے سر پر رکھ کر بوجھا کھاتے ہیں۔
 انڈوائی۔ انڈیائی۔ (انڈو۔ وا۔ ای۔ انڈو۔ یا۔ ای) (ہ مص) مرغی یا اد کوئی مادہ پرند جو انڈے دینے والی ہو۔
 انڈوائی (انڈیائی) ہوئی ہے۔ انڈیا گئی ہے۔ انڈے دینے پر ہے۔
 انڈورینیشنٹ (Indoor Patient) (ان۔ ڈور۔ پی۔ نیشنٹ) (انگ۔ اینڈ) وہ مریض جو ہسپتال میں داخل ہو۔
 انڈی۔ (ان۔ ڈی) (س۔ ا۔ منٹ) (۱) ریڈی۔ ریڈ کے پھل کا بیج (۲) انڈ کا پیڑ۔ (۳) ایک قسم کا مٹی کا کپڑا۔
 انڈیانا۔ (انڈ۔ یا۔ نا) (ہ مص) (۱) انڈے دینے کے قریب ہونا (۲) سیل یا جھینے کے خیموں کو ملتا تاکہ وہ جلدی چلے۔
 انڈیکس (Index) (ان۔ ڈیکس) (انگ۔ ا) مذ] فہرست ضمیر۔
 انڈیلٹا۔ (ان۔ ڈیل۔ ٹا) (ہ مص) [اونہانا۔ ٹوٹنا۔ لٹھانا۔ لیلٹنا۔
 انڈین (Indian) (ان۔ ڈی۔ این) (انگ۔ صف) ہندوستان کا۔ ہندوستان سے منسوب۔
 انڈین امپائر (Indian Empire) سلطنت ہند۔
 انڈین پنل کوڈ (Indian Penal Code) تعزیرات ہند ہندوستان کا قانون فوجداری۔
 انڈین سول سروس (Indian Civil Service) ہندوستان کی اعلیٰ ملکی ملازمت جس کا مخفف آئی۔ سی۔ ایس ہے۔ انگریزی دور میں اس منصب کے لیے مقابلے کا امتحان پاس کرنا پڑتا تھا۔
 انڈین کونسل (Indian Council) دیکھیے کونسل آف انڈیا۔
 انڈین نیشنل کانگریس (Indian National Congress) ہندوستان کی سیاسی جماعت جس کا آغاز لاڈل ڈون کے عہد میں مشملہ میں ہوا۔
 انڈر تھ۔ (ان۔ رتھ) (س۔ صف) بے معنی جمل غیر واجب۔ بیجا۔ نامناسب خلاف دستور۔
 انزالی۔ (ان۔ زالی) (ع۔ ا۔ مذ) (۱) اترنا۔ اترانا (۲) مٹی نکلنا۔ جھڑنا۔ انزال ہونا۔ جھڑنا۔ مٹی نکلنا۔
 انزجار۔ (ان۔ ز۔ جار) (ع۔ ا۔ مذ) ہٹ جانا۔ پلٹ جانا۔
 انس۔ (ان۔ انس) (۱) توانائی۔ طاقت (۲) حصہ۔ درجہ۔ جھاگ (۳) مٹی۔ تخم۔ بیج۔
 انس نکلنا۔ جان نکلنا۔ طاقت جانا۔ ناتوان ہونا۔
 انس۔ (ع۔ ا۔ مذ) انسان۔ آدمی۔ جمع۔ اُناس۔
 انس و جاں۔ انسان اور جان۔
 انس۔ (ع۔ ا۔ مذ) محبت۔ پیار۔ اختلاط۔ رغبت۔ میل جول۔

انساب (ان۔ ساب) (ع۔ ا۔ مذ) نسب کی جمع۔ نسلیں۔ خاندان شجرے۔
 انسان۔ (ان۔ سان) (ع۔ ا۔ مذ) (۱) آدمی۔ بشر (۲) محبت رکھنے والا مخلوق سے آراستہ (۳) آنکھ کی پتلی۔ جمع۔ اُناس۔
 انسان بنانا۔ (معاودہ) اچھی تربیت دینا۔ آدمی بنانا۔ مہذب بنانا۔
 انسان بننا۔ (معاودہ) آدمیت سیکھنا۔
 انسان دوستی۔ یعنی نفع انسان سے محبت کی تعلیم۔
 انسان کامل۔ [ت۔ صف] کل انسان۔ مرد مومن۔
 انسان کیا بکھر رہے۔ [مث] ہمت پیرد سیاحت کرنے والا۔
 انسان ہیں کچھ نہیں۔ آدمی کی زندگی کا کوئی اغیار نہیں۔
 انسان ہی تو ہیں۔ آدمی سے خطا ہو ہی جاتی ہے۔
 انسانی۔ (ان۔ سانی) (ع۔ صف) منسوب بہ انسان۔ بشری۔
 انسانیت۔ (ان۔ سانی۔ بی۔ ت) (ع۔ ا۔ منٹ) [آدمیت۔ بشریت۔ تمیز شعور عقل۔
 انسانیت (برتنا) سے پیش آنا۔ مرث کا برتاؤ کرتا۔ اخلاق و نہدیر سے بات چیت کرنا۔
 انسائیکلو پیڈیا (Encyclopaedia) (ان۔ سا۔ ای۔ یک۔ لو۔ پی۔ ڈیا) [انگ۔ ا۔ منٹ۔ ذ] قاموس تمام علوم و ائمۃ المعارف۔ وہ کتاب جس میں جلد علوم و فنون کے متعلق معلومات درج ہوں مخزن العلوم۔
 انسب۔ (ان۔ سب) (ع۔ صف) زیادہ مناسب۔ بہت ٹھیک۔
 انسپکٹر (Inspector) (انس۔ پک۔ ٹر) [انگ۔ ا۔ مذ] معائنہ کرنے والا۔ دیکھ بھال کرنے والا۔
 انسپکٹر جنرل (Inspector General) معائنہ کرنے والا بڑا افسر۔ اعلیٰ نگران۔
 انسٹیٹیوٹ۔ (ان۔ سٹیٹوٹ) (ہ صف) [سپاس اور نو۔ اٹھان کے بعد کا عدد۔ (۵۹)
 انسٹیٹیوٹ۔ انسٹیٹیوٹ (Institute) (انس۔ ٹی۔ ٹیوٹ۔ انس۔ ٹی۔ پیوٹ) [انگ۔ ا۔ مذ] ادارہ۔ محکمہ۔
 انسٹیٹیوشن (Institution) (انس۔ ٹی۔ ٹی۔ یوشن) [انگ۔ ا۔ منٹ] علمی مجلس۔ اصولوں یا قواعدوں کا ضابطہ۔ ادارہ۔
 انسداد۔ (ان۔ سد۔ اد) (ع۔ ا۔ مذ) (۱) بند کر دینا (۲) روک تھام۔ بندش۔ روکنے کا بندوبست۔
 انسٹیٹمنٹ۔ (ان۔ سی۔ بی۔ ٹمنٹ) (ع۔ ا۔ منٹ) [محبت۔ مہر۔ حب۔
 انشا۔ (ان۔ شا) (۱) عبارت کھنا۔ بات پیدا کرنا (۲) عبارت۔ طرز۔ تحریر (۳) کوئی بات پیدا کرنا۔ وہ کتاب جس میں خطوط کتابت کے قواعد و خطوط لکھے ہوں (۴) آردو کے مشہور شاعر انشا اللہ خان کا مخفف۔ عربی میں ہمزہ کے ساتھ تھا۔ فارسی میں حذف کر دیا گیا۔
 انشا پر داز۔ مضمون نگار۔ ادیب۔ پیشی۔ نثار۔ نشر کھنے والا۔
 انشا پر دازانہ۔ ادیب کی مانند عبارت آرائی کی شان والی۔
 انشا پر دازی۔ (۱) عبارت نویسی مضمون نگاری۔ عبارت آرائی (۲) خط یا عبارت لکھنے کا ڈھنگ۔ مضمون لکھنے کا طریقہ۔
 انشاعر اللہ تعالیٰ۔ (ع) [اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا۔

اطلاع - خبر

انفارمیشن بیورو (Information Bureau) محکمہ اطلاعات۔
 آنفاس - (آن - فاس) [ع - ا] مذ [نفس کی جمع - سانسیں - دم۔
 انفرادی - (ان - ف - راو) [ع - ا] مذ [کیلا ہونا - تنہا ہونا۔
 انفرادی - (ان - ف - راو) [ع - ا] مذ [نفس کی جمع - سانسیں - دم۔
 ذات سے مخصوص۔

انفرادیت - (ان - ف - راو) [ع - ا] مذ [نیت] [ع - ا] مذ [خودی - اتانیت
 (۲) ذاتی خصوصیت - فرد کا الگ وجود - (۳) غزائیات) ایک نظر پر کی
 نرس سے افراد کو فکر عمل کی آزادی ہونی چاہیے۔

انفراخ - (ان - ف - راخ) [ع - ا] مذ [فراغت یا - فراغت ملنا - کام ختم ہونا۔
 انفراخ - (ان - ف - راخ) [ع - ا] مذ [شگفتہ ہونا - پھٹا ہونا۔
 انفقس - (آن - ف - س) [ع - ص] مذ [ہمت نفیس - نہایت اچھا۔
 انفقس - (آن - ف - س) [ع - ص] مذ [نفس کی جمع - نفوس - ہمت سے آدمی۔
 انفساح - (ان - ف - ساح) [ع - ا] مذ [فسح ہونا - ٹوٹ جانا - خاتمہ۔
 انفساح معاہدہ - معاہدے کا ٹوٹنا۔

انفصال - (ان - ف - صال) [ع - ا] مذ [اجدا ہونا (۲) فیصلہ ہونا سٹے پانا۔
 انفصال - (ان - ف - صال) [ع - ا] مذ [انگ ہونا - جدا ہونا۔
 انفصالی - [ع - ص] مذ [انفردانہ جمہوری (انگ) (Passive)
 انفصالییت - (ع - ص) مذ [تقریباً - فاعل کا اثر قبول کرنے کی کیفیت۔
 انفصالییت کی ضد (انگ) (Passivity)
 انفکاک - (ان - ف - کاک) [ع - ا] مذ [انگ ہونا - جدا ہونا۔
 انفکاک رہن - روپرادار کے رہن کی ہوئی جا نداد واپس لینا۔
 انفکاک رہن - عدالتی اصطلاح میں زبردستی ادراک کے رہن کی ہوئی چیز
 واپس لینا۔

انفلوئنزا - (Influenza) (ان - ف - نو - این - زا) [انگ - ا] مذ
 وبائی زکام - فلو
 انفنٹری (Infantry) (ان - فینٹ - ری) [انگ - ا] مذ
 پیادہ فوج - پیدل پلٹی۔
 انقباض - (ان - ف - باض) [ع - ا] مذ [سکڑنا - بھینچنا - رکتا (۲) گرتگی۔
 بٹگی - قبض۔

انفراض - (ان - ف - راض) [ع - ا] مذ [امت پوری ہونا (۲) سہا ہونا
 قطع ہونا۔

انقسام - (ان - ف - سام) [ع - ا] مذ [حصہ حصہ ہونا - منقسم ہونا - بٹورا۔
 انقضا - (ان - ف - ضا) [ع - ا] مذ [امت پوری ہونا - گزرتا - (۲) تکمیل - اختتام۔
 انقطاع - (ان - ف - طاع) [ع - ا] مذ [کاٹا ہونا - تیز ہونا - کٹ جانا۔
 انقلاب - (ان - ف - لاب) [ع - ا] مذ [تغیر و تبدل - گردش - دور (۲) زمانہ
 کا پھرنے کا زمانہ - بنیادی تبدیلی پر لئے سیاسی یا معاشی نظام کی
 جگہ نئے نظام کا نفاذ - (انگ) (Revolution) جمع : انقلابات
 انقلاب آسمان - انقلاب دہر - انقلاب زمانہ - آسمان کا پھرنے کی
 گردش - وقت کی کا پھرنے۔

انشائیہ - (ان - شائ - یہ) [ع - ص] مذ [انشائے منسوب - سخی اصطلاح میں وہ
 مجلس میں پڑھنے کا مقالہ نہ ہو غیر سنجیدہ مضمون۔

انشراح - (ان - ش - راح) [ع - ا] مذ [کھلنا - کشادہ ہونا - واضح ہونا۔
 انشقاق - (ان - ش - قاق) [ع - ا] مذ [شق ہونا - تفرقہ - ٹوٹ کر الگ ہونا۔
 انشورنس (Insurance) (ان - شور - رش) [انگ - ا] مذ [بیمہ۔
 انصار - (آن - صار) [ع - ا] مذ [ناصر کی جمع (۱) مددگار (۲) مدینہ کے وہ باشندے
 جنہوں نے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی تھی۔

انصاری - (آن - صا - ری) [ع - ص] مذ [جماعت انصار کا فرد - انصار سے منسوب۔
 انصاف (ان - صاف) [ع - ا] مذ [۱) داد - عدل (۲) دیکھنے سے کرنا (۳) فیصلہ کرنا۔

انصاف چاہنا - (معاورہ) دادرسی چاہنا - فریاد کرنا - استغاثہ کرنا۔
 انصاف چکانا - (معاورہ) دادرسی کرنا - فیصلہ کرنا - جھگڑا چکانا۔
 انصاف سے دیکھنا - (معاورہ) سچی نظر رکھنا۔

انصاف کا خون کرنا - (معاورہ) انصاف نہ کرنا بے انصافی کرنا۔
 انصاف کرنا - (معاورہ) فیصلہ کرنا - جھگڑا چکانا - نیا دکرنا - حق کے مطابق فیصلہ کرنا۔
 انصاف (ان - ص - راف) [ع - ا] مذ [پھر آنا - ٹوٹ آنا۔

انصرام - (ان - ص - رام) [ع - ا] مذ [پورا ہونا (۲) انتظام کرنا - انجام
 کو پہنچانا - (۳) بندوبست - انتظام۔
 انضباط - (ان - ض - باط) [ع - ا] مذ [۱) پوسٹنگی مضبوطی (۲) ضابطہ ڈھنگ
 تعیین۔

انضباط اوقات - وقت کی تقسیم - وقت کی پابندی - وقت کا تعیین - نام نہیں۔
 انضباطی - (ع - ص) مذ [انضباط سے منسوب - نظم و نسق کے متعلق - ناویسی۔

[انگ] (Disciplinary)
 انضمام - (ان - ض - مام) [ع - ا] مذ [ملنا - پیوست کرنا - جو مل ہونا - شریعت - اتصال
 انطباع - (ان - ط - باع) [ع - ا] مذ [چھیننا - طبع ہونا - لغزش ہونا۔

انطاق - (ع - ہ) بات - بات کرنا۔
 انطباق - (ان - ط - باق) [ع - ا] مذ [چرنا - باہم ملنا - منطبق ہونا - اصل ہونا۔
 انطفا - (ان - ط - فا) [ع - ا] مذ [بگھ جانا - افسردہ ہونا۔

الظار - (آن - ظار) [ع - ا] مذ [نظر کی جمع - نظریں۔
 انعام - (ان - عام) [ع - ا] مذ [مخففہ ضلعت بخشش - بدلہ - اجر - معاوضہ۔
 کارگزاری کا جلد - جمع : انعامات۔

انعام و اکرام - خلعت - عزت عطا کیے وغیرہ۔
 انعدام - (ان - ع - دام) [ع - ا] مذ [نہیں ہونا - ناپید ہونا - ختم ہونا۔

انعطاف - (ان - ع - طاف) [ع - ا] مذ [ٹوٹنا پھینا - جھکنا - میلان۔
 انعقاد - (ان - ع - قاد) [ع - ا] مذ [منقسم ہونا - بندھنا (۲) اجتماع - عقدہ - قیام۔
 انعکاس - (ان - ع - کاس) [ع - ا] مذ [اٹھنا - اٹھنا (۲) مابہ عکس۔

انفت - (ع - ا - مت) [انگ - ا] مذ [جمع : آفات - آفت۔
 انفار - (ان - فار) [ع - ا] مذ [انفر کی جمع - لوگ۔

انفارمر (Informer) (ان - فار - مر) [انگ - ا] مذ [اطلاع دینے
 والا - مخبر۔

انفارمیشن (Information) (ان - فار - مے - شن) [انگ - ا] مذ

انقلابی - (ان - تن - لانی) [ع - ا - مذ] (۱) انقلاب سے منسوب (۲) انقلاب برپا کرنے والا۔ تبدیلی پیدا کرنے والا۔ تیز و تبدیل کرنے والا (انگ) (Revolutionary)

انقباض (ان - ن - یان) [ع - ا - مذ] (۱) انقباض ہونا۔ ملام ہونا (۲) فرماں برداری (انگ) [س - ا - مذ] (۱) نشان (۲) حرف - تحریر (۳) گنتی کے اعداد (۴) حصہ قسمت (۵) کاجل کی بندی جو نیچے کے ماتھے پر لگائی جائے۔ داغ - دھبہ (۶) ایک سے نو تک گنتی (۷) ناننگ کا ایک پارٹ (۸) گود (۹) پاپ دکھ - (۱۰) بارہ دفعہ مرتبہ (۱۱) صورت - روپ -

انگوار - (ان - کار) [ع - ا - مذ] (۱) نامائنا منظور نہ کرنا (۲) انحراف مخالفت - انگڑی - (ان - ک - ٹی) [ہ - ا - مٹ] (۱) ہلکے بڑے ہونے سے کی لہجے کی اصلاح (۲) ہلکے کڑی جس میں پھال لگایا جاتا ہے (۳) تانگہ کے پیچھے کے جوڑوں پر لگی ہوئی لہجے کی لہجے -

انگری دار - جس میں انگری لگی ہو جس میں اٹکنے کے لیے ہلکے ہوں - انگسار - (ان - ک - رسار) [ع - ا - مذ] ٹوٹ جانا۔ عاجزی نڈرتی۔ خاکساری - انکشاف (ان - ک - شاف) [ع - ا - مذ] کھلنا۔ ظاہر ہونا۔ جمع: انکشافات ان کلبیڈر (Unclaimed) (ان - ک - بیڈر) [انگ - صف] جس مال کا کوئی دعوے دار نہ ہو۔ لا وارث -

انکم ٹیکس (Incometax) (ان - کم - ٹیکس) [انگ - ا - مذ] آمدنی پر لگائی ہوئی - انکنا - (انگ - نا) [ہ - ا] چھنا (۲) امانت - چھیننا - انگڑی - (انگ - ٹی) [س - ا - مٹ] (۱) آنکھ - (۲) جنون آنکھڑیاں - (انگ - ٹی - یان) [ہ - ا - مٹ] آنکھیں - دید سے - آنکھوا (انگ - وا) [ہ - ا - مذ] (۱) آنکھ - نوک - بیچ سے پھوٹ کر نکلی ہوئی طرحی نوک جس سے پہلی پتیاں نکلتی ہیں - کلا - کوئل - چھنگلی (۲) آٹے کا ٹکڑا جسے گھی اور سرکہ کے نوام سے تیار کرتے ہیں -

انگھیا - (انگھ - یا) [ہ - ا - مٹ] (۱) بوسے کا ایک ٹیپہ یا تلم جس سے بزن پر ہتھوڑی سے ٹھونک ٹھونک کر فاشی کا کام کرتے ہیں (۲) آنکھ - انگیلا - (انگھ - یا - را) [ہ - ا - مذ] آنکھوں والا - انگیلیاں - (انگھ - یاں) [ہ - ا - مٹ] (۱) آنکھیں (۲) آٹے کے شکرے جنہیں گھی میں تل کر اور شیرے میں ڈال کر تیار کرتے ہیں - انگ [ہ - ا - مذ] (۱) بدن - تن - جسم (۲) بند عضو - جوڑ -

انگ بدیا - علی الاجسام علم تشریح بدن - علم طب - ڈاکٹری - انگ نوڑنا - انگڑائی لینا - انگ گتنا - (محاورہ) (۱) بغل گیر ہونا - بدن سے بدن ملنا چھاتی سے لگنا (۲) غذا کا جزو بدن ہونا -

انگ لگو - [ہ - صف] جو بچہ ہر وقت ماں کی گود میں رہے - انگار (ان - گا) [ہ - ا - مذ] انگڑھا - جامہ - پیرا - ہن - کھلا لباس یا لباس - انگا - [ف - مٹ] داہرہ - کھلائی - دو دھ پلانے والی - انگار - (ان - گار) [س - ا - مذ] (س) چنگاری - آگ (ف) انگارہ - انگارا - (ان - گا - را) [ہ - ا - مذ] (۱) آگ کا دہننا ہوا (کھڑا) - جلتا ہوا بڑا کھڑا (۲) نہایت سُرخ - چمکتا ہوا -

انگارا بننا - (محاورہ) کھائی کر لال ہونا - موٹا نا زہ ہونا - نندرتی میں رنگ کا سُرخ ہونا (۲) غصے میں لال پیلا ہونا -

انگڑوں پر سر رکھنا - (محاورہ) جان بوجھ کر نقصان کی طرف جانا - انگڑوں پر لٹانا - (محاورہ) تڑپانا - بہت دکھ دینا - اذیت دینا - انگڑوں پر لوٹنا - (محاورہ) رشک اور حسد میں جلتا - بیتاب دہلے تڑا رہنا - تڑپنا -

انگڑے اگنا - (محاورہ) سخت باتیں منہ سے نکلانا - انگڑے برسا سخت گری پڑنا - ٹوہنا (۲) خدا کا غضب نازل ہونا - انگڑے برسنا - (بددعا) اللہ کا غضب نازل ہونا -

انگڑے پھاگنا - (محاورہ) کوئی ایسا کام کرنا جس کا نتیجہ بہت بُرا ہو - انگڑے کی طرح دکھنا - بہت تیز بخار چلے - بدن آگ کی مانند جلتا - انگین - (انگ - یین) [ع - ا - مذ] شدید غسل -

انگڑکھا - (ان - گکھا) [ہ - ا - مذ] ایک ستر کا مردانہ لباس - تبا - انگریز (انگ - ریز) [ا - ا - مذ] انگلستان کا باشندہ - انگریزی - (انگ - رے - زی) [ا - ا - مٹ] (۱) انگریزوں کی زبان - (۲) انگلستان سے متعلق -

انگریزی راج تن کو کپڑا نہ بیٹھ کو اناج - [ڈیش] [انگریزوں کے دور حکومت کی حالت کو نوک بیچے اور روٹی سے محروم تھے -

انگڑانا - (انگ - نا) [ہ - ا - مذ] [انگڑائی لینا - بدن توڑنا - بستر پر کرٹ بدلنا - انگڑائی - (انگ - ٹا - ای) [ہ - ا - مٹ] باغیوں کا کھینچنا - بدن توڑنا جسم کے بالائی حصہ کا تھناؤ -

انگڑائی آنا - سستی اترتے وقت بدن بیٹھنا - انگڑائی توڑنا - سستی اتارنا - انگڑائی لینا - بدن توڑنا - انگڑکھنگڑ - (ان - گکھ - گکھن - گکڑ) [ہ - صف] [تڑپانا] اسباب فضول سامان کا کھینچنا -

انگلسان - (اؤن گساں) [ق - ا - مذ] [انگڑے کا پھل - انگلستانی - (ان - گسن - تانی) [ق - ا - مذ] [انگڑے کا پھل - انگ سنگ - (انگ - سنگ) [ہ - ا - مذ] [میل جمل - ملاقات - انگلش بیگش - (ان - گش - بین - گش) [ا - ا - مٹ] [اول جلول بیہودہ - لغو عمل - انگلشت - (ان - گشت) [ف - ا - مٹ] [انگلی -

انگشت بدنداں ہونا - (محاورہ) دانستوں میں انگلی دینا - حیرت تعجب ایسے یا حسرت کا اظہار کرنا -

انگشت بر لب ہونا - (محاورہ) خاموش رہنے کا اشارہ - انگشت ششم - وہ زائد انگلی جو بعض لوگوں کی پھنگی میں ہوتی ہے - انگشت شہادت - سیدھے ہاتھ کی انگلی کے پاس والی انگلی جسے نمازی النجات میں کلمہ شہادت پڑھتے وقت اٹھاتے ہیں -

انگشت نر - انگوٹھا - انگشت نما - بدنام جس کی طرف انگلی اٹھائی جائے - رسولے زمانہ - انگشت نما ہونا - (محاورہ) بدنام ہونا -

انگشت نمائی - بدنامی - برسوئی - انگشت نمائی کرنا - (محاورہ) رسوا کرنا - بدنام کرنا - عیب نکلانا -

انگوٹھا دکھانا۔ (معاورہ) پھینٹنا۔ اٹھا کرنا چڑھانا۔ صاف جواب دینا۔ بددیانتی اور خیانت کرنا کسی کی چیز کے کروا پس نہ دینا۔

انگوٹھا پھینانا۔ (معاورہ) انگوٹھا دکھا کر چڑھانا۔
انگوٹھے باندھنا۔ (معاورہ) میت کے پاؤں کے دونوں انگوٹھے آپس میں باندھنا کہ پاؤں سیدھے رہیں۔

انگوٹھے پر مارنا۔ (معاورہ) پرواہ نہ کرنا۔
انگوٹھی۔ (آن۔ گز۔ بھلی) [۱-۵۔ سمت] انگشتری۔ خاتم۔ انگلیوں میں پہننے کا ایک زیور۔

انگوچھا۔ (آن۔ گز۔ بھیا) [۱-۵۔ مذ] بدن پونچھے کا کپڑا۔ بڑا رومال۔ نونیا انگور۔ (آن۔ گز۔ بھلی) [۱-۵۔ مذ] (۱) ایک شیریں میوہ۔ تاک۔ عنب۔ داکھ (۲) زخم کا کھڑے۔ پیڑھی۔

انگور (بندھنا) بھرتا۔ (معاورہ) گھاؤ بھر کر کھڑے جانا۔
انگور بھٹ جانا (معاورہ) بھرے ہوئے زخم کا تڑپ جانا۔ زخم کھل جانا۔
انگور (تڑپنا) تڑپنا۔ (معاورہ) بھرتے ہوئے زخم پر بندھی ہوئی جھلی یا گوتہ کا الگ ہوجانا۔

انگور شفا۔ ایک بوٹی جس کی جڑ اور پتیاں دسے اور درد کو دور کرتی ہیں۔
انگور کھٹے ہیں۔ [بھٹل] میسر میں اس لیے خراب ہیں۔ کسی چیز کے حاصل نہ ہونے پر اس میں عیب نکالنا۔

انگور کی مٹیاں۔ بانس کی مٹیاں جس پر انگور کی سیلیں چڑھی ہوں۔
انگوری۔ (آن۔ گز۔ بھلی) [۱-۵۔ سمت] (۱) انگور سے بنا ہوا (۲) انگوری رنگ کا ہلکا ہر رنگ۔

انگوری باغ۔ وہ باغ جس میں انگور کے درخت ہوں۔
انگوری سیل۔ کپڑے پر کھئی باہمی بوٹی ہے جو انگور کے تشابہ ہوتی ہے۔
انگوری شراب۔ انگور کی شراب۔ انگور سے بنائی ہوئی شراب۔

انگولی۔ (آن۔ گول) [ق-۱-۱۔ مذ] ایسا فعل جس میں سر پر پانی نہ ڈالا جائے۔
انگھڑا۔ (انگھڑا) [س-۱-۱۔ مذ] کاسی کا بھلا۔
انگیا۔ (انگ۔ یا) [۱-۵۔ سمت] چوٹی۔ چھوٹا کپڑا۔ عورتوں کا ایک پینا جس سے صرف مہتاباں ڈھکی رہتی ہیں۔ سینہ بند۔

انگیا کا سٹک۔ انگیا کی کٹوریوں پر گھوڑا دھانکنے سے جو چھبھا نکلیں سن جاتی ہیں۔
انگیا کا کھڑا۔ وہ بنا ہوا سوت کا ڈوبا جو انگیا کی کرا اور کٹھی میں کوٹ کے اندر ہوتا ہے۔

انگیا کا کھاٹ۔ انگیا کا گلا اور گریبان۔ انگیا کی بناوٹ۔ کٹر بیونت۔
انگیا کی چڑیا۔ انگیا کی وہ سیون جو دونوں کٹوریوں کے بیچ میں ہوتی ہے۔
انگیا کی خواہی۔ انگیا میں بس کے ہاں ایک جگہ جس سے گھائی بھی گتے ہیں۔

انگیا کی دیوار یا دیواریں۔ انگیا کی کٹوریوں کے نیچے کا حصہ۔
انگیا کی ڈوری۔ وہ ڈور جو عورتیں انگیا کے گریبان کے گرد لگاتی ہیں۔
انگیا کی کٹوری۔ کٹوریاں۔ انگیا کا وہ حصہ جو چھتروں کے اوپر رہتا ہے۔
انگیا کے پان۔ انگیا کی کٹوریوں میں پڑنے کے دو ٹکڑے ہوتے ہیں چھوٹے انگیا کے پان اور بڑے کو دیبا کہتے ہیں۔
انگیا کے پھلے۔ انگیا کی چوڑی کوٹ جو انگیا کی آستینوں میں لگاتے ہیں۔

انگشتر۔ (آن۔ گش۔ تانہ) [ف-۱۔ مذ] دھات کی بنی ہوئی ٹوپی جسے کپڑا سیتے وقت انگیں پہن جیتے ہیں۔

انگشتری۔ (آن۔ گش۔ تانہ) [ف-۱۔ سمت] انگوٹھی۔
انگل۔ انگل۔ ڈان۔ گل۔ آن۔ گل) [۱-۵۔ مذ] انگلی کی ٹونائی کے برابر۔
انگلیانا۔ (انگ۔ لا۔ مذ) [۱-۵۔ سمت] انگلی کرنا۔ دن کرنا۔ آکسانا۔

انگلش (English) (انگ۔ لٹ) [انگ۔ سمت] انگلستان کا۔
انگلستان سے منسوب۔ انگریزی زبان۔

انگلی۔ (انگ۔ لی) [۱-۵۔ سمت] انگشت۔ ہاتھ اور پاؤں کے وہ مخروملے حصے جن میں ناخن ہوتے ہیں۔

انگلی کپڑانا۔ انگلی کرنا کے جلا نا۔ (معاورہ) چھوٹے بچوں کو جلنا سکھانا۔ سہارا دینا۔
انگلی بڑھتے ہوئے کپڑانا۔ (معاورہ) [شٹل] ڈرامنڈ رنگ سے پر سر چڑھنا۔
انگلی کپڑانا۔ سہارا لینا۔

انگلی دیکھنا۔ (معاورہ) انگلیوں کی سستی دور کرنا۔
انگلی دانستے دانا۔ حیران ہونا۔ اسوس کرنا۔
انگلی دکھانا۔ دھمکانا۔ ڈرانا۔

انگلی دھڑنا رکھنا۔ (معاورہ) اعتراض کرنا۔ عیب نکالنا۔ ٹھکے چینی کرنا۔
انگلی کرنا۔ (معاورہ) پریشان کرنا۔ ستانا۔
انگلی لگانا۔ (معاورہ) چھوٹا۔ چھوٹا کرنا۔ چھوٹانا۔

انگلی ملاؤ۔ نایاب کا ایک انداز جس میں دونوں ہاتھ سر کے اوپر اٹھا کر انگلیاں ملا دی جاتی ہیں۔
انگلیاں اٹھانا۔ (معاورہ) اشارہ کرنا۔ رُوا کرنا۔ بدنام کرنا۔

انگلیاں اٹھنا۔ (معاورہ) رُوا ہونا۔ بدنامی کے ساتھ مشہور ہونا۔ کٹھن ہونا۔ مٹھن ہونا۔
انگلیاں توڑنا۔ (معاورہ) انگلیوں کو اس طرح توڑنا کہ چٹ چٹ کی آواز ملے۔
انگلیوں کی سستی دور کرنا۔

انگلیاں (چکانا) مٹکانا۔ (معاورہ) ہاتھ اٹھا کر انگلیاں پچھانا۔ عورتوں کا غزبے سے یا لڑائی سے انگلیاں پچھانا۔
انگلیاں دانتوں میں دبانا۔ (معاورہ) جبر کا اظہار کرنا۔ حیران ہونا۔

انگلیاں کاٹنا۔ حیرانی۔ تاسف کے ساتھ حیران ہونا۔
انگلیاں کاٹوں میں دینا۔ (معاورہ) بزاری کا اظہار کرنا۔
انگلیاں گھسنا۔ (معاورہ) کوئی ایسا کام کرنا جس سے انگلیوں پر رگڑ لگے۔

انگلیاں پچھانا۔ بدتمیزی سے ہود حرکت۔ حماقت۔ سمجھنا۔ چیلہ پل۔ چڑھانا۔
انگلیوں پر پچھانا۔ بہت تنگ کرنا۔ ذلیل کرنا۔ خاطر میں نہ لانا۔
انگلیوں پر گھسنا۔ (معاورہ) تھوڑی تعداد میں ہونا۔

انگلیٹ۔ انگلیٹھ۔ (انگ۔ لیٹ۔ لیٹھ) [۱-۵۔ سمت] جتہ۔ ڈیل ڈول وضع قطع۔ اٹھان۔ جسم کی بناوٹ۔ قد و قامت۔

انگلیٹائی۔ (انگ۔ تا۔ ای) [۱-۵۔ سمت] آٹمن۔ صحن۔ گھر کے اندر کھلی جگہ۔
انگلیٹا۔ (انگ۔ نی۔ یا) [۱-۵۔ سمت] آٹمن کی تصنیف۔ چھوٹا آٹمن۔

انگوٹھا۔ (آن۔ گز۔ بھلی) [۱-۵۔ مذ] ہاتھ اور پیر کی پہلی اور سب سے موٹی انگلی انگشت ز انگوٹھا چومنا۔ (معاورہ) خوشامد کرنا۔ چا پوسی کرنا۔ عاجزی۔ شنا بہت عظیمیّت و محبت کا اظہار کرنا۔

انگلیشی۔ (ان۔ گی۔ بیٹی)۔ (ہ۔ امش) آگ رکھنے کا برتن۔ کڑنٹش دان۔
 آنکھت۔ (آن۔ کیخ۔ نت)۔ (ف۔ مٹ) اشتغال۔ سحراب۔ آنکھین کا حاصل مصدر۔
 آنچیز۔ (آن۔ گیز۔ ف) [۱] برداشت [۲] اٹھانے والا۔ بطور لاحقہ آتا ہے
 جیسے غنڈہ آنچیز۔

آنچیزنا۔ (آن۔ گیزنا)۔ (ا۔ مٹ) سہنا۔ برداشت کرنا۔ گوارا کرنا۔ سہارنا۔
 آنمان۔ (آن۔ مان)۔ (س۔ اند) آنکل۔ گمان۔ اندازہ۔ قیاس۔ نتیجہ۔ جبل۔
 انما جہت۔ (آن۔ منماہت)۔ (ن۔ امش) آنا سازی۔ عجلالت۔ بیماری۔
 انتاس۔ (آن۔ ن۔ ناس)۔ (ر۔ اند) ایک مشہور محل جو لمہ نر اہرناس ہے۔ ذائقہ نہیں
 شیریں و ترش اور خوشبودار ہرنا ہے جو کڑے قریب لگتا ہے۔

آنست۔ (آن۔ سنت)۔ (ہ۔ صفت) [۱] جس کا اخیر نہ ہو۔ بے حد [۲] بہت زیادہ
 [۳] طاقت ور [۴] آسمان [۵] مینیش ناگ [۶] ایک گنا جو بانو
 میں پہنا جاتا ہے۔

آنست چودس۔ بھاووں کی چودھویں تاریخ جس دن وشنو جی کا بیو بار
 منایا جاتا ہے۔

آنند۔ (آنند)۔ (ہ۔ صفت) خوش۔ یکن۔ شاداں۔ اس کے مرکبات آنند
 الف عمدوہ میں دیکھیے۔

آنند بھائی۔ خوشی کی مخصوص۔ روا لگی (ق)
 انوار۔ (آن۔ وار)۔ (ع۔ اند) نور کی جمع۔ روشنی۔ اجمالاً تعجبی۔ ضیا۔ چمک۔

انوا سنا۔ کوئے برتن کو کھنگال کر کام میں لانا
 آن واسی۔ (آن۔ واسی)۔ (ہ۔ صفت) گنوار کی ضد۔ بیاہی ہوئی۔ کھنگالی ہوئی۔

انوارع۔ (آن۔ وارع)۔ (ع۔ اند) نور کی جمع۔ تھیں۔ رنگ رنگ بھانت بھانت
 الوب (آ۔ نوپ)۔ (ہ۔ صفت) بے مثال سے نظریہ۔ کینا۔ لانا۔

انویان۔ (آ۔ نو۔ پان)۔ (ہ۔ اند) طریقہ استعمال۔ کھانے کا قاعدہ۔ وہ چیز جو دو
 کے ساتھ اس غرض سے دی جاتی ہے کہ وہ حلق سے اتر جائے۔

آن وٹ۔ (آن۔ وٹ)۔ (ہ۔ امش) [۱] پیر کے انگوٹھے میں پہننے کا ایک گنگر دو
 مچھلا [۲] چھب۔ انداز۔ ناز۔ سحر۔ ایک۔

انوکھا۔ (آن۔ نو۔ کھا)۔ (ہ۔ صفت) [۱] انوکھا۔ خوب صورت۔ اچھا۔ بڑھیا [۲] جھوٹے کی
 ضد۔ کھانے کی چیز جس میں سے کسی نے کھایا نہ ہو۔

انوکھی بات۔ (آنوکھی۔ بات)۔ (ہ۔ صفت) انوکھی بات۔ نیکی بات۔ ناربات۔
 انور۔ (آن۔ ور)۔ (ع۔ صفت) بہت روشن۔ خوب صورت۔ نہایت نورانی

زیادہ چمکیلا۔
 انوکھا۔ (آن۔ نو۔ کھا)۔ (ہ۔ صفت) نرالا۔ نادر۔ عجیب۔ وغریب۔ سب سے الگ۔
 انوکھاپن۔ نرالاپن۔

آنکھ۔ (آنکھ)۔ [۵] بے پروائی اور لغزت کا کلمہ۔
 آنہار۔ (آن۔ ہار)۔ (ع۔ امش) آنہر کی جمع۔ نہریں۔

آنہتر۔ (آنکھت۔ تر)۔ (ہ۔ صفت) ساٹھا اور نو۔ اسیٹھ کے بعد کا عدد (۶۹)
 آنہدام۔ (آن۔ ہ۔ دام)۔ (ع۔ امش) ڈھانا۔ گرانا۔ سمار کرنا۔ بر باد دی۔

آنہزام۔ (آن۔ ہ۔ زام)۔ (ع۔ امش) تتر تتر ہونا۔ جھاڑ پڑنا۔ شکست کھانا۔
 آنہضام۔ (آن۔ ہ۔ ضام)۔ (ع۔ امش) جھم ہونا۔

آنہماک۔ (آن۔ ہ۔ ماک)۔ (ع۔ امش) مصروفیت۔ محویت۔ استہائی مشغولیت۔

آنہوریان۔ (آن۔ ہور۔ یاں)۔ (ہ۔ امش) گرمی دینے۔

آنہیں۔ (آن۔ ہیں)۔ (ا۔ امش) [۱] قریبی شاہہ۔ ان کو۔
 آنہیں۔ (آن۔ ہیں)۔ (ا۔ امش) دور کا اشارہ۔ ان کو۔

آنی۔ (آ۔ نی)۔ (ہ۔ امش) [۱] نیرے کی نوک۔ بڑھی کی نوک [۲] جوڑنے کی نوک
 ایتائی۔ (آن۔ بن۔ یا۔ ای)۔ (س۔ اند) ظالم۔ انصاف۔

آبتائے۔ (آن۔ بن۔ یا۔ سے)۔ (ہ۔ اند) ظلم۔ بے انصافی۔ اندھیر۔
 آبتیت۔ (آ۔ بتیت)۔ (س۔ صفت) بے انصافی۔ ظلم۔

آبتیتی۔ (آ۔ تی)۔ (س۔ امش) [۱] شرارت۔ بُرائی۔ بدی [۲] بے انصافی۔ ظلم۔
 آبتیس۔ (آ۔ تیس)۔ (ع۔ صفت) [۱] اُس رکھنے والا۔ محبت کرنے والا۔ دوست۔ بہم

[۲] مشہور مرثیہ گو میر بریل لکھنوی کا تخلص۔
 آبتیس۔ (آن۔ تیس)۔ (ہ۔ صفت) دس اور نو۔ اٹھارہ کے بعد کا عدد (۱۹)
 آبتیس بیس۔ تھوڑا سا۔ معمولی سا۔

آبتیس بیس کا فرق۔ (معاود) معمولی سا فرق۔ تھوڑا سا فرق۔
 آبتیس بیس ہونا (معاود) حادثہ پیش آنا۔ ایسی ویسی بات ہونا۔

آبتیسواں۔ (آن۔ تیس۔ واں)۔ (ہ۔ صفت) گنتی میں آبتیس کی جگہ پر آنے والا۔
 اٹھارہویں کے بعد۔

آبتیسوں۔ (آ۔ تی۔ سون)۔ (ہ۔ امش) ایک دو کا نام۔
 آبتین۔ آبتینقر۔ (آبتین۔ آ۔ تی۔ نقر)۔ (ع۔ صفت) خوش آنند۔ خوب۔ عجیب۔ نادر۔

آبتیک۔ (آ۔ بتیک)۔ (س۔ صفت) ہمت۔ ایک سے زیادہ۔ جو گنا نہ جاسکے۔
 آن گنت۔

آبتیلا۔ (آ۔ تی۔ لا)۔ (ہ۔ صفت) نا بخیر کار۔ نادان۔ بھولانا۔ نافٹ۔ خام۔
 آبتیلاین۔ نادان پن۔ بھولاپن۔ نا بخیر کار۔ نادان۔ ناقصیت۔

آبتیلی۔ (آ۔ تی۔ لی)۔ (ہ۔ صفت) نا بخیر کار۔ نادان۔ بھولی بھالی۔
 آبتیمیا (Anaemia) (آبتی۔ می۔ یا)۔ (انگ۔ امش) جسم میں خون کی کمی۔
 ایک مرض۔

ا-و

اؤ [۵] (واو معدود) حرف ندا۔ اے۔ اے۔ اپنے سے پھرتے اور کم رتبہ
 شخص کو پکارنے کے لیے کہتے ہیں۔

اواخر (ا۔ وا۔ خر)۔ (ع۔ اند) آخر کی جمع۔ انتہا۔ حد۔ ختم۔ انجام۔
 اوارجر۔ اوارجر۔ (ا۔ وا۔ رجر۔ ا۔ وا۔ رجر)۔ (ف۔ اند) روزانہ پھر حساب کی
 کتاب۔ ہی۔ رسید بک۔

اوارزہ تو ازہ۔ (ا۔ وا۔ زہ۔ ث۔ وا۔ زہ)۔ (ا۔ اند) طعن۔ تشنیع۔ بولی ٹھولی۔
 اواسط۔ (ا۔ وا۔ سبط)۔ (ع۔ اند) اوسط کی جمع۔ درمیانی باتیں یا چیزیں۔

اوامر۔ (ا۔ وا۔ مر)۔ (ع۔ اند) امر کی جمع۔ احکام۔
 اواکل۔ (ا۔ وا۔ اکل)۔ (ع۔ صفت) [۱] اول کی جمع۔ ابتدا۔ آغاز۔ پہلے حصے [۲]
 [ار] چرنے کی مال۔

اواکل عمر۔ ابتدائے عمر۔ بچپن۔ چھوٹی عمر۔ لڑکپن۔ بالین۔ کسی۔
 اواٹی۔ (ا۔ وا۔ ای)۔ (ہ۔ امش) [۱] آمد [۲] کسی کے آنے کی خبر [۳] چھوٹی خبر۔

اولی (اڑنا) اڑنا - جھوٹی جھیلنا یا پھیلانا۔

اوب - (۱-۵) مٹ [کچھ عرصہ تک ایک ہی حالت میں رہنے پر طبیعت کی بے چینی گھراہٹ - اکتا ہٹ - بے چینی - بیزاری۔

اوباش - (او۔ باش) [ع۔ صفت] پوش کی خلاف قیاس - جمع - پچا - غنڈہ - لوفر کیمنے نوگ - بدعاش - بدچلن - آدابہ۔

اوباشی (او۔ باشی) [ع۔ اسمت] بدعاشی - بدچلنی عیاشی - زنا کاری۔

اوبنا - (اوب۔ نا) [ع۔ موص] اکتا نا گھرانہ۔

اوبنی - (اوبنی) [ع۔ اسمت] وہ گڑھا جو ہاتھی کے پھسنے کے لیے جھیل میں شخص پوش کیا جاتا ہے۔

اؤب - (۱-۵) مٹ [چمک - چلا - آب و تاب - صنیقل۔

اوپچی - (اوپ۔ چی) [ف۔ ا۔ مذ] ہفتیا ر بند - سر سے پاؤں تک ہتھیار سے سجا ہوا بانکا سپاہی۔

اوپر - (اوپر) [ع۔ موص] اپنے کی ضد - اونچا - بالا - (۲) بالا خانہ - کوٹھا - (۳) باہر (۴) اس سے پہلے (۵) اپنی ذات پر (۶) زیادہ (۷) سہاے - برتنے پر (۸) ظاہری دکھاوٹ۔

اوپرا - (۱-۵) صفت [دکھاوے کا ظاہری (۲) اجنبی - غیر موزوں۔

اوپر اوپر (۱) بالا بالا چپکے چپکے - الگ الگ - پوشیدہ (۲) بے اثر۔

اوپر اوپر جانا - (مجاورہ) بیکار اور بے اثر ہو جانا۔

اوپر تلے - نیچے اوپر - پورے متواتر لگانا - ایک کے اوپر ایک۔

اوپر تلے کے - وہ نیچے جن کے نیچے میں کوئی پتہ پید نہ ہو۔

اوپر دھڑی - ناسخ کا الزام بیعت کی تہمت۔

اوپر سے - اُپر سے - بندی سے (۲) اس کے علاوہ - ماسوا (۳) رشوت یا بالائی یافت۔

اوپر سے دینا - (مجاورہ) ہلکا پھلکا یا تھپڑ مارنا۔

اوپر کی سوچنا - دور کی سوچنا۔

اوپر کے دم (انا) بھڑنا - اعلیٰ سائیں چلنا - آخری سائیں لینا - نزع کی حالت ہونا۔

اوپر وار - اوپر کی طرف۔

اوپر والا (۱) خدا (۲) نیا چاند - ماہ نو (۳) نوکر چاکر - کارکن پیش خدمت (۴) اجنبی - غیر (۵) اوپر کے کام کا نوکر۔

اوپر والے (۱) غیر - بے نفع - دوسرے (۲) حکام (۳) کوٹھے پر سنے والے۔

اوپر والیاں (۱) بریاں بریلیں (۲) چیلیں (۳) پیش خدمت عورتیں - ماما - صلیبیں۔

اوپر کی اوپر - بالا بالا - الگ ہی الگ - پوشیدہ جھپوٹاں۔

اوپر ہی اوپر ملنا - بغیر کسی کو خبر ہونے ملنے رہنا - چپکے چپکے الگ ہی الگ ملاقات کرنا۔

اوپری - (اوپ۔ ری) [ع۔ صفت] (۱) اوپر کا (۲) باہر کا - باہری (۳) نمائشی۔

دکھاؤٹی - (۳) اجنبی - غیر ناموزوں۔

اوپری دل سے - ظاہر طور سے - دکھاوے کو۔

اوپرا - (Opera) (اوپرے - را) [انگ۔ ا۔ مذ] غنائی تمثیل - وہ ناٹک جس میں موسیقی کا عنصر غالب ہو۔

اوت - [ع۔ صفت] (۱) وہ شخص جو جوان ہو کر بزرگ بنا کر جائے (۲) اولاد (۳) نامرز

ناکام (۴) بے نوبت - احمق - نادان (۵) پلید ازلح (۶) شمس -

اوت کسمراری جانا - نفع یا نقصان ہونا۔

اوت نیرتزا - بن بیا یا اور بے اولاد - وہ شخص جو کنوارا اور بے اولاد ہے

ایک قسم کا کوسنا بھی ہے جیسے اوت نیرتزا جائے۔

اوت نیوتی - وہ عورت جو کنوارا اور بے اولاد ہے۔

اوتاد - (اوتادتی) [ع۔ ا۔ مذ] میخیں (۲) اولیاہ اشکا ایک خاص درجہ۔

اوتار - (اوتار) [ع۔ ا۔ مذ] (۱) ہندوؤں کے عقیدے میں خدا کا کسی جہنم میں داخل ہونا کہ مخلوق کی اصلاح کے لیے زمینیاں آنا (۲) [صفت] نیک۔

فرشتہ - مقدس - ولی - خدا ربیرہ آدمی۔

اوتاولا - [ع۔ صفت] جلد باز - بے قرار۔

اوتادلا پن - جلد بازی - بے صبری۔

اوتار پتار - (اوتار - پتار) [ع۔ صفت] الگ کیا ہوا - بیجا ہوا - ادا کیا ہوا۔

اوتار پتار ہونا - بلیا ق ہونا۔

اوت - (۱-۵) مٹ [روک جس سے سامنے کی چیز دکھائی نہ گئے - پردہ - آڑ۔

گھونگھٹ - نقاب (۲) بیاہ - سیاہ - حمایت (۳) عقوبت - پیچھے - پوشیدہ۔

غائب از نظر (۴) گھٹ - گھین گاہ (۵) گاڑی کے اونٹنے کی لکڑی۔

اوت میں بیٹھنا - اڑ میں بیٹھنا - پس پردہ بیٹھنا۔

اوتنا - (اوتنا) [ع۔ ا۔ مذ] (۱) پرشے کی دیوار (۲) کپاس اونٹنے والا آدمی (۳) کپاس اونٹنے کی چرخی پسنا دیوں کے بیٹھنے کا چبوترا (۴) سارن کا ایک اوزار

جس سے وہ بازو بند کے دانوں کی ٹوکھیں بناتے ہیں (۵) وہ پتھر جو دروازے کے آگے دایمیں اور بائیں ہاتھ پر بیٹھنے کے لیے لگا دیتے ہیں۔

اوتانا - (اوتانا) [ع۔ موص] کھولانا - دودھ یا کسی اور دھن چیر کا خوب گرم کرنا۔

اوت پٹانگ (اوت - پٹ - ٹانگ) [ع۔ موص] نعل بے معنی - بیہودہ بنے ہوئے ٹانگ بے جوڑ۔

اوتل ہو جانا - نظر سے چھپ جانا۔

اوتن - (اوتن) [ع۔ ا۔ مذ] (۱) ابال - تار (۲) تباکو کاٹنے کی ٹھیری (۳) چرخی کے دو ڈنڈے جن کے گھومنے سے روٹی میں سے بنو لے الگ ہو جاتے ہیں۔

اوتنا - (اوت - نا) [ع۔ موص] (۱) بیٹنا - روٹی کو بنوں سے جھکا کرنا۔

اوتنی - (اوتنی) [ع۔ ا۔ مذ] (۱) لکھی یا چھچھ - آج بچ چھ بٹے دودھ اور کسی تر چیر کو ہلانے یا چلانے کی چیز (۲) کپاس اونٹنے کی چرخی بیٹنی۔

اوج - [ع۔ اسمت] اونچائی - بلندی (۲) نشان - رعیت - عروج۔

اوج موج - خوش حالی - فارغ البالی - بلند انبالی۔

اوجار - (اوجار) [ع۔ ا۔ مذ] و جمع کی جمع - درد۔

اوجڑ - (اوجڑ) [ع۔ صفت] اچھا ہوا - ویران - غیر آباد - خراب۔

اوجڑ نگری سونا دیں - [ع۔ موص] ویران مقام - خیر آباد جگہ۔

اوجھ - [ع۔ ا۔ مذ] چوبلیوں کا معدہ - پیٹ - شکر - بطن۔

اوجھ بھرے نردوگ بڑھے - [ع۔ موص] لکھی قدر بھوک رکھ کر کھانا بیاریوں سے محفوظ رکھنا ہے۔

شور سن کر آجاتا ہے اور انہیں بھگا کر پھیلوں پر قبضہ کر لینا ہے۔
 اودھم (اُد۔ دھم) [ہ۔ ا۔ مذ] شور و شر، ہنگامہ، دُناؤ، بڑا غلغلہ۔
 اودھم اٹھانا۔ اودھم مچانا۔ ہنگامہ دُنا دہر پانگرتا۔ بھگتا اٹھانا۔
 نہایت شور و غل کرنا۔
 اودھم مچا رکھنا۔ شور و غل مچانا۔

اودھی (اُد۔ دھی) [ہ۔ صفت] بھگتا اور فساد۔ شریر۔
 اودھو کا لین نہ ما دھو کا دین۔ [مثل] کسی سے کوئی واسطہ نہ رکھنا۔ انگ
 تھنک رہنا۔

اُور۔ [ہ۔] [کلمہ عطف] (۱) دو لفظوں کو ملانے والا لفظ (۲) دوسرا (۳) زیادہ (۴) پھر
 دوسرا مختلف (۵) صرف (فقط) (۶) یا سو گز (۷) نیا۔ جدید (۸) علاوہ
 ماسوا (۱۰) پر۔ بلکہ۔ سوا (۱۱) غیر (۱۲) خلاف۔ برعکس (۱۳) معلوم۔ غیر متعین
 وہ (۱۴) ہاں۔ توہی ہے۔

اُور ارادے سے دیکھنا۔ (معاورہ) بری نیت سے نظر کرنا۔

اُور اُور باتیں۔ عجیب عجیب باتیں۔ کچھ کی کچھ باتیں۔

اُور بات ہے۔ (معاورہ) انگ معاملہ ہے۔ دوسری بات ہے۔

اُور بھی سنا۔ نئی بات سنی۔ تم نے عجیب بات سنی ہے۔

اُور تمنا سنا دیکھو۔ نئی انوکھی بات سنو۔

اُور تو اُور۔ جبریت کی بات یہ ہے۔ اوروں کو ماننے دو۔

اُور سٹو۔ (روزمرہ) اچھی ٹھہرو۔ بیٹا زہ بات ہوئی۔ اسے لو۔ دیکھو۔

اُور سے اُور (ہو جانا) ہونا۔ (معاورہ) حالت پلٹ جانا۔ ترقی یا تنزل ہونا۔

اُور طرف کی راہ لینا۔ (معاورہ) دوسرے راستہ جانا۔

اُور عالم میں ہونا۔ (معاورہ) اور رنگ میں ہونا۔ اور کیفیت میں ہونا۔

آپ میں نہ ہونا۔

اُور عالم ہو جانا۔ (معاورہ) دوسری کیفیت پیدا ہو جانا۔

اُور عالم ہونا۔ دُور درنگ ہونا۔

اُور کیا۔ (استغناء) تصدیق اور تنسیخ کے لیے بولا جاتا ہے۔ بیشک
 یقیناً۔ کیا خوب۔

اُور کو نصیحت اپنے تئیں فضیحت [مثل] اس شخص کی نسبت بولتے ہیں
 جو اوروں کو نصیحت کرے مگر خود عمل نہ کرے۔

اُور کے نام اندھے نیچے ہمارے نام کڑک [مثل] اوروں سے
 سلوک کرتے ہو ہم سے نہیں بغیر مڑے کریں اپنے بھوکے مری۔

اُور کیا کیا کہنا ہے۔ کیا خوب۔ یوں ہی چاہئے۔ یہی بات ہے۔ ٹھیک۔
 بے شک۔

اُور گھر (دیکھنا) تلاش کرنا۔ (معاورہ) دوسری جگہ ٹھکانہ کرنا۔

اُور نہیں تو کیا۔ (نقز) یہی بات تو ہے۔

اُور ہوا میں اُڑنا۔ دوسرے رنگ میں ہونا۔ بولا ہوا انداز ہونا۔

اُور ہی بات ہے (فقہ) نرالی کیفیت ہے۔ تعریف کی جگہ کہتے ہیں۔

اُور ہے۔ تازہ۔ انوکھا۔ عجیب طرز۔ خلاف واقع۔ خلاف برعکس۔

اُور۔ (شور کے وزن پر) [ہ۔] [۱] طرف۔ سمت۔ جانب (۲) شروع۔ ابتدا (۳)
 کناہ۔ چھوڑ (۴) حایت۔ جانب داری (۵) منڈلی۔ فریق (۶) صدر۔ آتما۔ اٹھا۔

اوجھا۔ (اوجھا) [ہ۔ ا۔ مذ] [۱] معلّم۔ نجومی۔ رمال۔ جوتشی (۲) جادوگر۔ مساح
 سیانا بھار پھرنیک کرنے والے برہمنوں کی ایک ذات۔

اوجھڑ۔ (اوجھڑ) [ہ۔ ا۔ مثن] ڈھال کی چھڑپ (۲) صدر۔ ضرب بھوکر۔

اوجھڑ لگانا۔ مارنا۔ ڈھال کی چھڑپ لگانا۔ دشمن کے سر پر سر مارنا۔ دھکا دینا
 ضرب لگانا۔ صدر دینا۔

اوجھڑی۔ (اوجھڑی) [ہ۔ ا۔ مثن] جانوروں کا معدہ۔ اوجھ۔

اوجھل (اوجھل) [ہ۔ ا۔ مثن] آڑ پیڑہ حجاب (۲) پوشیدہ۔ غائب از نظر۔

اوجھنا۔ (اوجھنا) [ہ۔ مثن] [۱] انڈینا۔ ایک بڑن سے دوسرے بڑن میں آٹنا۔

اوجھا۔ (اوجھا) [ہ۔ صفت] کم ظرف۔ کینہ۔ احسان جملے والا (۲) اُدھوا
 ہلکا (۳) اُٹکا۔ چھوٹا۔ (۴) کم گرا۔

اوجھا بڑن اُلٹا ہے (بھگتتا ہے) [مثل] کم ظرف ٹھوڑی پوچی پر اترنے سے
 گتا ہے۔

اوجھا پین۔ پھپھورا پین۔ کم ظرف۔ کینگی۔

اوجھا دار۔ [ہ۔ مذ] ضرب جو کاری نہ ہو۔

اوجھا ہاتھ پڑنا۔ ہلکا ہاتھ پڑنا جس سے ضرب کم آئے۔

اوجھن پچھن۔ (اوجھن۔ پوچھن) [ہ۔ ا۔ مثن] کھانا کھا چکنے کے بعد بڑنوں میں
 سے جو بچا ہوا نکالا جائے۔

اوجھی بات۔ نازیا بات۔ ہلکی بات۔ نامناسب بات۔

اوجھی پوچی خصم کو کھائے۔ [مثل] ٹھوڑے رچے سے بیو پار کرنے میں اصل
 بھی برباد ہو جاتا ہے۔

اوجھے کا احسان بُرا ہوتا ہے۔ کم ظرف کا احسان کبھی نہ لینا چاہئے۔ کیسے
 مدد نہ لینا چاہئے۔

اوجھے کی پیریت بالوںی بھیت [مثل] کم ظرف کی دوستی کا اعتبار نہیں
 اوجھے کے گھر کا کھانا جعم جعم کا طعنہ۔ [مثل] کم ظرف ٹھوڑا احسان کر کے
 ہیونہ طعنہ دیا کرتا ہے۔

اوجھے ہتھیاروں پر اتر آنا۔ (معاورہ) بس نہ چپنے پر نازیا حرکات پر
 اتر آنا۔ کینگی پر اتر آنا۔

اوجھشتن کم است کرا رہبری کُند۔ [مثل] جو شخص خود بھٹکا ہوا ہے۔ وہ
 بھلا کس کی رہبری کر سکتا ہے۔

اُورا (اُد۔ ا) [ہ۔ صفت] مٹھی لئے ہوئے کالے رنگ کا بینگنی رنگ کا۔

اُودا سا۔ اُود سا۔ (اُد۔ وا۔ سا۔ اُد۔ سا) [ہ۔ ا۔ مثن] چٹا۔ مصیبت
 تکلیف۔ دکھ۔ آفت۔

اُودا ہٹ۔ (اُد۔ وا۔ ہٹ) [ہ۔ ا۔ مثن] بینگنی رنگ کا ہونا۔

اُور بلاؤ۔ (اُد۔ بب۔ لاؤ) [ہ۔ ا۔ مثن] [۱] بی سے مشابہ ایک جانور جو دیاؤ
 کے کنارے رہتا اور مچھل بندک کھاتا ہے (۲) بے وقوف آدمی۔

اُود بلاؤ کی ڈھیری۔ وہ بھگتا کو بھی نہیں نہ ہو۔ اود بلاؤ دو ہتک دریا سے
 پھلباں پڑتے رہتے ہیں۔ پھر ان کی ڈھیریاں لگا کر ہر ایک ان میں سے
 ایک ڈھیری کے سامنے بیٹھ جاتا ہے۔ لیکن یہ خیال کر کے کہ جتنے برابر
 نہیں لگائے گئے ہیں۔ سب اٹھ کر ڈھنے لگتے ہیں اور مچھلیاں ملا کر پھر
 ڈھیریاں لگاتے ہیں۔ یہی ہونا رہتا ہے۔ یہاں تک کہ کوئی شکاری ان کا

اور پھانا - (اور پھانا) (س - مص) [کپڑے یا کسی قسم کی دوسری چیز کو بدن پر لینا۔
 (۲) اپنے سر لینا۔ نئے لینا (۳) [مذ] دوپٹہ - جاوہرہ۔
 اور پھانا آٹا - (محاورہ) بے عزت کرنا۔ بنک کرنا۔ سر پر بند کرنا۔ بدن میں آن کرنا۔
 اور پھانا (اٹھانا) ڈالنا (محاورہ) مانڈیا بیرو کے ساتھ شادی کرنا۔
 اور پھانا بچو - (محاورہ) ہر وقت استعمال میں لانا۔ لحاف - نوشک - ستر بستر۔
 اور پھانے میں دلانا - (محاورہ) لیٹنا۔ سر ہونا۔ دہن گیر ہونا۔ پد پکڑنا۔
 اور پھنی - (اور پھنی) (ہ - امث) چھوٹا دوپٹا۔
 اور پھنی اور پھنا (محاورہ) زنا نہ پاس پہننا۔ مرد کا عورتوں کی مانند ہو جانا۔
 اور پھنی بدلتا - (محاورہ) ہننا یا کرنا۔ بس بنانا۔
 اور پھوانا - (اور پھ۔ وان) [ہ مص] کپڑے سے ڈھکنا۔
 اور پھوں کہہ ڈالو - (محاورہ) [ہ کی] کام کا نہیں ھنصول ہے۔ بیکار ہے۔
 اور پھی چاؤڑ پھوئی برا برا میں بھی شاہ کی خالہ ہوں - [امث] پھوئی حیثیت پر اترنا۔ بڑے آدمی سے خواہ مخواہ کا رشتہ ظاہر کرنا۔
 اور زار - (اور زار) (ع - ا۔ اند) [وزر کی جمع - آلات - ہنھنار۔
 اور زان - (اور زان) (ع - ا۔ اند) [وزر کی جمع - باٹ بیٹے - تولنے کے پیلانے
 اوس - (ہ - امث) شبنم - (پ) تزیل۔
 اوس (پڑنا) پڑ جانا - [امث] شبنم کرنا (۲) پڑوہ ہونا۔ ٹھکانا۔ بے وزن ہونا
 پھنا۔ ٹھنڈا پھوٹنا۔ پھوٹنا (۳) پھنڈا ہونا۔ پھانا (۴) روکن کرنا۔ اسی پڑنا
 اوس چھٹے پیاس نہیں بھتی - [امث] پھوٹی مقدار سے تسکین نہ ہونا
 داسی چیز سے اُسو کی نہیں ہوتی۔
 اوس سی پڑنا۔ بے رونق چھانا۔ مغم ہونا۔ (د) اسی رہنا۔
 اوس کے موٹی - (۱) شبنم کے قطرے (۲) [جمانا] زائل یا فنا ہونے والی چیز
 اوسان (اور سان) (ہ - اند) [ہ و] [۱] ہوٹی وحاس (۲) جرات۔ بہمت۔ حوصلہ۔
 اوسان آنا۔ (محاورہ) حواس بجا ہونا۔
 اوسان اٹھانا۔ (محاورہ) ہوش اُڑانا۔ بد حواس کر دینا۔
 اوسان اٹھانا۔ (محاورہ) اوسان جاتے رہنا۔ اوسان خطا ہو جانا ہوش و
 حواس بجا نہ رہنا۔ عقل کا کچرا جانا۔ خطبہ ہو جانا۔ گھبرا جانا۔ سٹ پٹا جانا۔
 اوسان ٹھکاتے ہونا۔ (محاورہ) حواس بجا نہ رہنا۔
 اوسان جانا۔ حواس جاتے رہنا۔
 اوسان خطا ہو جانا۔ (محاورہ) حواس بجا نہ رہنا۔
 اوسان درست رہنا۔ (محاورہ) ہوش و حواس قائم رہنا۔
 اوسان کھو جانا) دینا۔ (محاورہ) گھبرا جانا۔ گھبرا دینا۔ بد حواس کر دینا۔
 اوسان گم ہونا۔ (محاورہ) حواس جاتے رہنا۔
 اوسان گئی۔ حواس باختہ عورت۔ بد حواس بھنترپ۔ بے قرار۔
 اوسان لے جانا۔ بد حواس کر دینا۔
 اوسان میں آنا۔ اوسانوں میں آنا۔ ہوش میں آنا۔
 اوسان میں نہ رہنا (محاورہ) ہوش میں نہ رہنا۔ ہوش ٹھکانے نہ رہنا۔
 اوسر - اوسرا - (اوسر - اوسرا) (ہ - امث) [۱] گائے یا بھینس جو کا بھن ہونے
 کی ٹم کو پھینکتی ہو۔
 اوسر - (اوسر) (ہ - صفت) بخیز میں جس میں کچھ نہ پیدا ہوتا ہو۔

اور پھانا - (۱) حمایت لینا۔ پاسداری کرنا (۲) انجام کو پہنچانا۔ حد تک پہنچانا۔
 اور او - (اور او) (ع - ا۔ اند) [۱] دور کی جمع - دخالت۔
 اوراق (اور اراق) (ع - ا۔ اند) [۱] ورق کی جمع - کاغذ کے ٹوکاغذ کا ٹکڑا کسی چیز کا
 پارچہ جیسے چاندی کے ورق۔
 اور (Over) (اور ور) [انگ - حرف جار] (۱) پڑ - اور (۲) [مذ] (دکھت) ایک
 ایک حرف کے بول کر گیند پھینکنے کی باری (جس میں پھیر پھیریں پھینکی جاتی
 ہیں) (۳) ایسا کرنا اعلان ایک باری ختم ہو گئی (۴) [تابع فعل] اُدپرکا
 بالائی۔ باہر کا۔
 اور ایٹنگ (Overacting) ڈراما، پارٹ میں ضرورت سے
 زیادہ اداکاری دکھانا۔
 اور ٹائم (Over Time) زائد وقت (جس میں مزدور وغیرہ وقت
 کے علاوہ کام کرے)
 اور کوٹ (Over Coat) پائوں تک لمبا کوٹ جو اکثر جازوں
 میں پہنتے ہیں۔ فرس۔
 اور ہال (Overhaul) مشین کے کل پڑوں کی صفائی اور ترمیم۔
 اورس چورس - (ہ - صفت۔ مث) [آس پاس - اطراف و جوانب۔
 اور ما - (اور ما) (ہ - ا۔ اند) ایک قسم کی سلاخی۔
 اور ماٹنا یا کرنا (۱) اور سے کی سلاخی کرنا (۲) بہت ماننا۔ مارنے ماننے
 کی جوڑ نکال دینا۔
 اورنگ - (اورنگ) (ف - اند) (۱) شاہی تخت (۲) ایک پھول کا نام
 اورنگ زیب - تخت کو زینت دینے والا جمعیہ خاندان کے چھٹے بڑے
 باجروست بادشاہ محی الدین عالمگیر کا لقب۔
 اورنگ زیبی بھوڑا - مغلی بھوڑا۔ ایک قسم کا سخت تکلیف دہ ڈبل جس کا
 علاج نہایت مشکل ہے۔ کارسیکل۔ رکن میں عرصہ تک قیام کے باعث
 شہنشاہ اورنگ زیب کی فوج میں بدمرض پھیل گیا تھا۔
 اور بیب - (اور بیب) (ہ - امث) (۱) لڑھی چال (۲) کپڑے کی ترچی کاٹ۔
 (۳) بیچ۔ الجھن۔ (۴) بگاڑ و مشکل (۵) جھگڑا اٹھینچانا۔
 اور بجیل (Original) (اور ری بی۔ نل) [انگ - صفت] طبع زاد۔ ابتدائی۔
 اور سے دھورے (اور سے۔ دھورے) [ہ] [آس پاس - ارد گرد - ادھر ادھر۔
 اورینٹیل (Oriental) (اور ری۔ ابن۔ تل) [انگ - صفت]
 مشرق سے متعلق۔ مشرقی۔
 اورینٹلسٹ (Orientalist) [انگ - صفت] علوم مشرق
 کا ماہر۔ غیر مشرقی۔ مستشرق۔
 اورٹا - (اورٹا) (ہ - ا۔ اند) کی - نوٹا ٹینگلی۔
 اورٹا پڑنا - ناپید ہونا۔ غارت ہونا۔ گھو یا جانا۔ ٹھنا۔ کمی یا قحط پڑنا۔
 اورٹھانا - (اورٹھانا) [ہ مص] ڈھانٹنا۔ کسی کے بدن پر کھڑا ڈالنا۔
 اورٹھنی بوٹی تو کیا کرے گا کوئی - [امث] - بے غیرتی لاؤنی تو اب کس کی پڑا
 ہے بے حیا اور بے شرم کے متعلق کہتے ہیں۔
 اورٹھ لینا - (اورٹھ۔ لے۔ نا) (محاورہ) [ہ مص] (۱) کپڑا بدن پڑال لینا
 گوارا کرنا۔ اپنے دوست لے لینا۔

اور حکمت میں کبیر [میشل] بد لوگوں میں نیک کام پیدا ہونا کم نصیب اور مفلس کے میان صاحبِ اقبال اولاد ہونا۔ بد صورتوں میں خوب صورت۔ نا اہلوں میں اہل۔

اوسرا۔ (اوس۔ را) [ہ۔ ا۔ مذ] باری۔ فوٹو۔ ڈور۔

اوسط۔ (اوسط۔ اوسط) [ع۔ صفت] بیچ کا۔ درمیانی۔ جمع: اواسط۔

اوشدھ۔ (س۔ ا۔ مش) دوا۔ وہ چیز جس سے بیماری دور ہو۔

اوشدھالیبہ۔ (اوشدھ۔ آ۔ ل۔ بیہ) [س۔ ا۔ مذ] دوا خانہ۔

اوصاف۔ (اوصاف) [ع۔ مذ] وصف کی جمع۔ خوبیاں۔ اچھائیاں۔

اوصیاء۔ (اوصیاء) [ع۔ ا۔ مذ] وصی کی جمع۔ وہ لوگ جنہیں وصیت کی گئی ہو۔

اوضاع (اوضاع) [ع۔ ا۔ مش] وضع کی جمع۔ ڈھنگ۔ طریقے۔ افعال و کماز۔

اوطان۔ (اوطان) [ع۔ ا۔ مذ] وطن کی جمع۔ دیس۔

اوقات۔ (اوقات) [ع۔ ا۔ مذ] وقت کی جمع۔ زمانے (۲) [ا۔ ا۔ مش] حیثیت۔ بساط۔

اوقات بسری۔ گزران۔ گزراوقات۔

اوقات تلخ ہونا۔ (معاورہ) ناگوار بات پیش آنا۔ بُری طرح زندگی بسر کرنا۔

اوقات پہلی جانا۔ (معاورہ) گزر بسر ہوتے جانا۔

اوقات ضائع کرنا۔ (معاورہ) بے کار کاموں میں وقت کھونا۔

اوقات کیلئے (معاورہ) حیثیت کیلئے تحقیقت کیا ہے۔

اوقات ہونا۔ (معاورہ) بساط ہونا۔ حیثیت ہونا۔

اوقات۔ (اوقات) [ع۔ ا۔ مذ] وقف کی جمع۔ ایک محکمہ جو وقفِ جاہلود کا انتظام کرتا ہے۔

اوقات ورتوز۔ [ع۔ مذ] سحر پر مبنی ٹھہراؤ اور وقفہ کی علامات کا استعمال

تا کہ مطلب واضح ہو سکے۔ [انگ] (Punctuation)

اوقیہ۔ (اوقیہ) [ع۔ ا۔ مذ] چالیس دم کا وزن۔ انگریزی اونس کے برابر

اوک۔ [ہ۔ ا۔ مش] چیلو۔

اوک سے پیٹا۔ چیلو سے پیٹا۔

اوک چوک۔ (اوک۔ چوک) [ہ۔ ق۔ ا۔ مش] بھول چوک۔ اتفاق سے کبھی کبھی

اوکنا۔ (اوک۔ نا) [ہ۔ ص] منے کرنا۔ رد کرنا۔ لٹی کرنا۔

اوکھ۔ [ہ۔ ا۔ مش] ایک گنا۔ پونڈا۔ بیشکر۔

اوکھالنا [ق۔ بصر] قے کرنا۔ زمین کی طرف دیکھنا۔

اوکھد۔ (اوکھد) [ہ۔ ا۔ مش] دوا۔ دارو۔ علاج۔ معالجہ۔

اوکھلی۔ (اوکھلی) [ہ۔ ا۔ مش] لکڑی یا پتھر کی بنی اور زمین کی گڑبڑ توئی کوئی

جس میں غلہ وغیرہ موصول سے کوٹھے ہیں۔

اوکھلی میں سردیانا۔ (معاورہ) نمود بلاکت میں پڑنا۔ خوف و خطر کے موقع میں قدم

رکھنا۔ جان پوچھ کر خطرہ میں پڑنا۔

اوکھلی میں سردیا تو دکھوں (موسلوں) سے کیا ڈر [میشل] جب ایک

خطرناک کام شروع کر دیا تو اندیشوں سے کیا ڈرنا۔

اوکھی۔ (او۔ کھی) [ہ۔ صفت] بے جا۔ بے موقع۔ کھوئی۔ ناقص۔

اوکھیاں (آنا) چھوڑنا۔ اوکھیاں سُنانا۔ آواز بے کنا۔ طعنہ زنی کرنا۔

اوکھے گوکھے [ہ۔ صفت] ایسے ویسے۔ گنوار۔ دیوانی۔ احمق۔ بے وقوف۔

اوکھیلنا۔ (او۔ کھیل۔ نا) [ہ۔ بصر] بی بی ہوئی ڈوری کا بل کھونا۔

اوگرا۔ (اوگ۔ را) [ہ۔ صفت] ابالا ہوا۔ بے کھی کا بچا یا بچا کھانا۔ بے مزہ کھانا۔

اوگن۔ (اوگن) [ہ۔ ا۔ مذ] گن کی ضد (۱) عجیب نقص (۲) بے بہتری (۳) بُرائی

(۴) بد ہنسی (۵) بچاؤ غلط (۶) جرم۔

اوگن لگانا۔ تمت دھنا۔ الزام لینا۔ عجیب لگانا۔

اوگنا۔ (اوگ۔ نا) [ہ۔ صفت] (۱) غصے کے وقت سلوک اور احسان جتنا نام (۲) طبع ہنر (۳)

اوگھٹ۔ (اوگھٹ) [ہ۔ صفت] (۱) ٹیرھا۔ نا ہوار (۲) دشوار۔ نا قابلِ گزیر۔

اوگھٹ گھاٹی۔ (ہ۔ مش) (۱) دشوار گزار راستہ جس راہ سے گزنا محال ہو۔

اوکھی۔ (اوکھی) [ہ۔ ا۔ مش] (۱) لمبا چابک۔ وہ لمبی رسی جسے پکڑ کر کھینچنے

سے زور کی آواز نکلتی ہے۔ گھڑوں کے سدھانے اور پرندوں کے

اڈانے میں کام آتا ہے۔

اوگی۔ (اوگی) [ہ۔ ا۔ مش] (۱) کار چوٹی جڑنے کا پتہ۔ عملی جوتے کا مادہ پتہ۔

اول۔ [ہ۔ ا۔ مش] (۱) ایک قسم کی نگاری (۲) وہ آدمی جو ضمانت میں دیا جائے (۳) ضمانت

اول میں چول دہی میں موسل [میشل] اس جگہ کہتے ہیں جب کسی ہاتھ کے

ٹوکریں کوئی اور بات جس کا اس ذکر سے کچھ نا سمجھت نہ ہو پھیر دی جلتے

یا ہونے جڑنے کام میں کوئی آڑ بٹکا لگ جلتے۔

اول میں دینا۔ اپنے بیٹے یا رشتہ دار کو بطور ضمانت سپرد کرنا ضمانت میں دینا۔

اول۔ (او۔ اول) [ع۔ صفت] (۱) پہلا۔ مقدم۔ پیلے (۲) آغاز۔ ابتدا۔ شروع۔

(۳) بہتر۔ عمدہ۔ اعلیٰ۔ افضل۔ جمع: اول۔

اول آخر۔ (۱) ابتدا۔ انتہا (۲) باپ دادا۔ آل اولاد۔

اول اول۔ پیلے پیلے۔ ابتدا میں۔

اول با آخر نسبتے دارو۔ [ن۔ مقولہ] آغاز اور انجام میں تعلق ہونا ہے

ابتدا سے ہی انجام کا اندازہ ہونا۔

اول خویش بعدہ درویش [میشل] پیلے اپنے اعوہ کے ساتھ سلوک کرنا

چاہئے۔ اس کے بعد عیوں سے۔

اول دن سے۔ ابتدا سے۔ شروع سے۔

اول طعام بعدہ کلام۔ [میشل] کھانا باتوں پر مقدم رکھنا چاہیے۔ کھانا

مقدم ہے۔ کھائے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔

اول مرنا آخر مرنا پھر مرے سے کیا ڈرنا۔ [میشل] جب ایک دن مرنا

ہی ہے۔ پھر موت سے خوف کیسا؟

اول منزل۔ نبر سے مراد ہے۔ گور۔ لحد۔

اول منزل پہنچانا۔ (معاورہ) دفن کرنا۔ قبر میں اتارنا۔

اول منزل کر دینا۔ (معاورہ) دفن کر دینا۔

اوللا۔ (او۔ لا) [ہ۔ ا۔ مذ] (۱) بخارات کے جھے ہوئے فطریے جو برف

کی شکل میں آسمان سے گرتے ہیں (۲) شکر یا قند سے بنائے ہوئے لٹو۔

(۳) نہایت سرد

اولا ہو جانا۔ بہت ٹھنڈا ہو جانا۔

اولوں کا مارا کھیت باقی کا مارا گاؤں چیلوں کا مارا جو لھان نہیں پہنچا۔ [میشل]

جس حکمت میں اولے پہنچائیں سرد نہیں ہوتا جس گاؤں کی مال گداری ادا نہیں ہوتی

کبھی آباد نہیں ہوتا جس جو لھے سے دم پڑیم بھر جاتی ہے اس میں آگ نا نہیں کھاتی

۴۹۹ ق م میں ہوا تھا) (۲) زمانہ حال کے بین الاقوامی کھیلوں کے
 معاملے جو ہر چوتھے سال ہوتے ہیں۔
 اولو۔ (اؤ۔ ٹو) [ع۔ صف] اوپری۔ نیار۔ ناموزون۔ اونکھا۔
 اولو اولو۔ اوپلا اوپری۔ نیانیا۔ اکھڑ اکھڑا۔
 اولو۔ (اؤ۔ ٹو) [ع] مالکان۔ تغاضبان۔ صاحبان۔
 اولو الی بصار۔ صاحب بصیرت۔ دانا۔ سمجھ دار لوگ۔
 اولو الالباب۔ صاحبان عقل و خرد۔ مشور والے۔
 اولو الالمر۔ صاحبان حکم۔ باختیار لوگ۔
 اولو العزم۔ صاحبان عزم و ارادہ۔ صاحب عزم۔ دل چلا۔ عالی حوصلہ۔
 دل گردے کا۔ بہادر۔
 اولو العزمانہ۔ اولو العزم کی طرح۔
 اولو العزنی۔ بلند بنی۔ جرات۔ استقلال۔
 اولی۔ (اؤ۔ لا) [ع۔ صف] بہتر۔ اچھا۔
 اولی تر۔ زیادہ بہتر۔ بہت اچھا۔
 اولی ترین۔ سب سے بہتر۔
 اولیا۔ (اول۔ یا) [ع۔ صف] دلی کی جمع۔ صاحب خلدندہ۔ مالک۔ زمین۔ دوست۔
 (اصطلاحاً) اہل اللہ۔ خدایہ۔ سیدھا اور بھولا لہا آدمی۔
 اولیار اللہ۔ وہ لوگ جنہیں قرب خلدندی حاصل ہے۔ عارفان الہی۔ اہل اللہ۔
 اولیار دولت۔ امکان حکومت۔ امیر وزیر سردار۔
 اولیکے گھر بھوت [مثل] نیوں کے گھر بد بھلے آدمی کے گھر بد اولاد۔
 اولی اجمتہ۔ (اؤ۔ لی۔ آج۔ ان۔ حد) [ع۔ صف] بال و پروں والے۔
 (کنایتہ) فرشتے۔
 اولیت۔ (اؤ۔ وی۔ لی۔ تیت) [ع۔ ا۔ مت] اول ہونا۔ بہتری۔ فوقیت۔ تقدم۔
 اولیل۔ اولول (اؤ۔ لیل۔ اول۔ ول) [ع۔ ا۔ مت] گھوڑے کی اچھل کود۔
 اولین۔ (اؤ۔ وی۔ لین) [ف۔ صف] پہلا۔ اگلے لوگ۔ پہلے زمانے والے۔
 اولینڈنا۔ (اؤ۔ نے ن ڈنا) [ق۔ مص] آئینہ۔ ٹوٹا۔
 ادم۔ (س۔ ا۔ ند) [۱] ایشورکا سب سے مخدس نام (۲) ہاں۔ واقفی۔ آئین۔
 اون۔ (اؤ۔ ند۔ یئم۔ جانوروں کی کھال کھال (۲) صوف۔
 اونا۔ (اؤ۔ نا) [ع۔ صف] جو بورا دھرا ہو (۲) چھوٹا۔ کم۔ ناقص (۳) [ایت]
 ایک قسم کی تلوار جو پتلی اور چھوٹی ہوتی ہے۔
 اونا ہوجانا۔ (معاودہ) تلوار کی دھار کا آ کر جانا۔ خراب ہوجانا۔
 اوجھی۔ (اؤ۔ جھی) [ع۔ ا۔ مت] (۱) کچے کچے گھبوں کے گھنے ہونے دانے
 (۲) جنگلی یا پھیلوں کو پکڑنے کا خش پوش کرنا۔
 اونٹ۔ (اؤ۔ ا۔ ند) شتر۔ ایک پانچواں زور جو گھینسا نوں میں سواری اور بار بار اڑا
 کے کام آتا ہے۔
 اونٹ بڑھا ہوا۔ ابرموت سنانہ آیا [مثل] انا ہوا ہوا مگر تیز آئی۔
 اونٹ برابر ڈیل بڑھا یا پائش بھر عقل نہ آئی۔ [مثل] انا ہوا ڈیل او۔
 عقل ذرا نہیں۔ اونٹ کی برابر بڑھا مگر تیز خاک نہ آئی۔
 اونٹ بلبلا تا ہی لنتا ہے۔ [مثل] اس جگہ کہ جس جہاں کوئی شخص
 کام کرنے وقت بڑھتا ہو۔

اولوں ماری ناختر۔ مصیبت زدہ۔ دکھیاری۔
 اولے پڑنا (معاودہ) نزالہ ماری ہونا۔
 اولے نعلے ہسناؤں جیسے۔ [ع۔ مثل] آفت دور ہو جائے تو آرام ہو جانا۔
 اول۔ (اؤ۔ وی۔ لن) [ع۔ تابع فعل] سب سے پہلے۔
 اولاد۔ (اؤ۔ لاد) [ع۔ ا۔ مت] اولاد کی جمع۔ بال بچے۔ بیٹی بیٹی۔ آل و عیال۔
 لٹکے بالے نسل۔
 اولاد آدم۔ (ع۔ مذ) انسان۔ آدمی۔
 اولاد اناث۔ بیٹیاں۔
 اولاد و کور۔ بیٹے۔
 اولاد و صحیح النسب۔ حلال کی اولاد۔
 اولاد کی آج بڑی ہوتی ہے [مثل] اولاد کی مانند بہت بڑی چیز ہے
 اولاد کی محبت میں آدمی سب کچھ کر بیٹھا ہے۔
 اولاس۔ [ق] شوق۔
 اولاسا۔ [ق۔ ا۔ مت] دلاسا۔ تسلی۔
 اولالا۔ [ق۔ ا۔ مذ] دلور۔ جوش۔
 اولالی۔ [ق] بے ہوشی۔ بے راہ روی۔
 اولامولا۔ (اؤ۔ لا۔ مو۔ لا) [ع۔ صف] سہوہ۔ اول جلول۔
 اولتی۔ (اول۔ تی) [ع۔ ا۔ مت] کھپریل یا پھیر کا وہ حصہ جہاں سے بارش کا
 پانی نیچے گرتا ہے۔
 اولتی کا پانی بلند ٹڑی نہیں چڑھتا [مثل] کینہ شرافت کے مرتبے کو
 نہیں پہنچ سکتا۔
 اولتی تلے کا بھوت، ستر رکھوں (پشتوں) کا نام چلنے۔ [مثل]
 گھر کا بھیدی ہی خواب کرتا ہے۔
 اولتیوں جھنگ جو آدمی۔ [مثل] سب کو بے وقوف بنا دیا۔
 اولتیوں کا بھگ جو نا۔ بد سنی کرنا۔
 اولتام (Oldtom) (اول تام) [انگ۔ ا۔ مت] ایک قسم کی انگریزی شراب
 اول جلجل۔ (اؤ۔ ج۔ لول) [ع۔ ا۔ مت] بے ہودہ۔ بے ڈھنگا۔ بے فربہ
 اول جلجل ہونا (معاودہ) بے عقل۔ بے وقوف۔ بے سلیقہ۔
 اول فول بکنا۔ (معاودہ) (اول۔ فول بکنا) [ع۔ ا۔ مت] لغویات کرنا۔
 بے ہودہ باتیں کرنا۔ فحش بکنا۔
 اولجا۔ (اول۔ جا) [ع۔ ا۔ مذ] کھیت کا پانی ایچھے کا برتن۔
 اولکھن۔ (اؤ۔ کھن) [ق] بڑھتی۔
 اولما۔ (اول۔ ما) [ع۔ ا۔ مذ] (۱) انڈون میں قیمر بھگ کے بجانا (۲) کھال تارنا
 گرم پانی جسم میں ڈال کر یا جسم کو گرم پانی میں ڈال کر کھال تارنا۔
 اولما کرنا۔ قیمر بھگ کرنا۔ بھگے بھگے کرنا۔
 اولمپک۔ (Olympic) (او۔ لم۔ پک) [انگ۔ صف] یونان
 کے ایک میدان اولمپیا سے منسوب جہاں ہر چوتھے سال اہل یونان
 کے ادنی اور ورزشی مقابلے ہوا کرتے تھے۔
 اولمپک کھیل (Olympic Games) (۱) اہل یونان کے ادنی
 اور ورزشی مقابلے جو ہر چوتھے سال ہوتے تھے (سب سے پہلا مقابلہ

مکے میں فروخت کر دوں گا۔ لیکن اونٹ مل جلانے پر بڑی تشویش ہوئی کہ اسے مکے میں کیسے بیچ دوں۔ اس نے اونٹ کے گنگے میں ایک بلی باندھ دی اور آواز لگائی کہ اونٹ کو مکے میں اور بلی کو ڈیڑھ سو روپے میں بیچا ہوں مگر ایک دو روپے سے علیحدہ فروخت نہ ہوگا۔ اونٹ کے گمذ میں زیرہ [مثل] بڑے پیٹ والے کو ذرا سی چیز کھانے کو دینا کسی چیز کا ضرورت سے کم ہوتا۔

اونٹ کاؤ۔ ذرا فز۔ افریقہ کا ایک جانور جس کی گرن اونٹ کی طرح لمبی، آگے کے پاؤں لمبے اور پیچھے کے چھوٹے ہوتے ہیں۔

اونٹ لہے بے گاری۔ [مثل] اونٹ بیگا رہیں خوب لڑتا ہے جننا بیچھا جالا لا دیا کوئی روہ نہیں۔ جب کسی کو کسی کام پر مجبور کیا جائے اس وقت کہتے ہیں۔

اونٹانا۔ (اون۔ ٹانا) (ہ۔ میس) (۱) جوش دینا۔ کھولانا (۲) غصہ میں جھلانا۔

اونٹنا۔ (اونٹ۔ نا) (ہ۔ مص) (۱) کھولنا جوش کھانا (۲) غصہ میں جھلانا۔

اوپنی۔ (اونٹ۔ نی) (ہ۔ امٹ) مادہ اونٹ۔ ساندنی۔ ناقہ۔

اوپنی۔ (ہ۔ مٹ) بیلن۔ کپاس بیلنے کی مشین۔

اوپچ۔ (ہ۔ امٹ) اونچا۔ بلندی۔ فراز۔ اوپر اٹھا ہوا۔ بڑا اچھا۔

اوپچ نیچ (معاورہ) اونچا بیچا۔ آثار چھٹاؤ (۲) بھلائی برائی۔ نیک و بد نفع و نقصان۔

اوپچ بیچ تانا۔ اوپچ بیچ دکھانا۔ اوپچ بیچ سمجھانا۔ (معاورہ) نیک و بد جانا۔ نیشب و فراز سمجھانا۔

اوپچ نیچ ہو جانا (معاورہ) سمجھنا) سوچھنا۔ (معاورہ) نیک و بد کی پہچان ہونا۔

اوپچ نیچ ہو جانا (معاورہ) (۱) بھلائی برائی پیش آنا (۲) خرابی پڑ جانا۔ قیاحت واقع ہونا۔

اوپچا۔ (اؤن۔ چا) (ہ۔ صفت) (۱) بلند۔ بالا۔ (۲) درازت (۳) امیر۔ دولت مند۔ (۴) عالی مرتبہ۔ معزز۔

اوپچا بول بولنا (معاورہ) تیز کرنا۔ مغرور ہونا۔ فخر کرنا۔

اوپچا چڑھنا۔ (معاورہ) اونچی جگہ پر چڑھنا۔ اعلیٰ درجہ حاصل کرنا۔ ترقی کرنا۔

اوپچا نر (۱) وہ نر باناں جو موسیقی میں آواز نکالتی ہے (۲) بلند آواز۔

اوپچا (سنتا) سنتا دینا۔ (معاورہ) کم سننا۔ بہرہ ہونا۔

اوپچا (گھر) گھرانا۔ امیر گھر۔ معزز خاندان۔

اوپچا نیچا۔ نا ہوار۔ غیر سطح۔

اوپچا ہانگہ۔ بالادست۔ حیرت۔ بافیض۔

اوپچا ہاتھ رہنا۔ (معاورہ) سب سے ٹھہ جانا۔ ہمیشہ دیتے رہنا۔ قابو پانا۔

اوپچی۔ (اؤن۔ چی) (ہ۔ صفت) بلند۔ اونچا کی تائیت۔

اوپچی اسانی۔ مال دار آدمی۔

اوپچی جوئی۔ بہاؤ کی بلند جوئی۔

اوپچی دکانی پھیکا پھوان۔ [مثل] خوب سہمی ہوئی دکان نگر مال خراب (نام) اڈ شہرت کے خلاف یا اچھا نام مشہور نگر اصل میں ذلیل بطور طعن و تشنیع کہتے ہیں

اوپچی ناک کرنا۔ (معاورہ) آبرو رشتا عزت دینا۔

اوپچی ناک والا۔ بڑا مغرور۔ شیخی خور۔ اظہاراً بے غیرت۔

اونٹ بڈیاں لے گئیں ہاں جی ہاں جی کہتے۔ [مثل] ناچار خود بخود ہی کے متعلق کہا جاتا ہے جو کسی کو غمخیز کرنے کے لیے دن کو رات کہتے کو تیار ہو۔

اونٹ جب بھاگتا ہے تو پیچھ کو۔ اونٹ مکے ہی کی طرف بھاگتا ہے [مثل] ہر ایک اپنی اصل کی طرف رجوع کرتا ہے۔

اونٹ جب تک پہاڑ کے پیچھے نہ آئے اپنے سے اونچی کسی کو نہیں جانتا [مثل] اپنے سے زبردست کا مقابلہ ہونے پر اپنی حقیقت معلوم ہوتی ہے۔

اونٹ چڑھے ہونٹ ملگے [مثل] بے موقع، بے محل بات کرنے کی جگہ کہتے ہیں۔

اونٹ چڑھے کتا کلاٹے [مثل] نہایت بھیبھی کے موقع پر کہتے ہیں۔ اونٹ دیکھے کس (محل) کروٹ بھٹتا ہے۔ [مثل] کسی معاملہ کی نسبت کہتے ہیں کہ دیکھا ہیستے کہ کیا ہو اور کیا نتیجہ نکلے۔ انجام کیا ہو۔

اونٹ ڈو میں بھڑپن گھاہ مانگیں۔ [مثل] اس جگہ کہتے ہیں جہاں کسی امر میں بڑوں کی سختی نہ ہو اور آدمی اپنی جیلانے کی کوشش کرے۔ بڑی مصیبت والے فریاد نہیں کرنے یعنی تکلیف والے جیلانے ہیں (۲) جہاں بڑے کی حقیقت نہ ہو وہاں چھوٹے اپنی جیلانے ہیں۔

اونٹ رے اونٹ تیری کوسنی کل سیرھی [مثل] بے دقتی آدمی کی نسبت کہتے ہیں جس کی کوئی بھی بات ٹھکانے کی نہ ہو۔

اونٹ سستا ہے شادنگلے [مثل] اس موقع پر بولتے ہیں جب معمولی کام کے ساتھ کوئی بڑا اچھیرا ہوتا ہے۔

اونٹ فرشتے کی ذات ہے [مثل] اونٹ نہایت علم صابر اور ذرا نفع جاوز ہے۔ بڑا ہی نیک ہے۔

اونٹ کا پاد۔ بے اثر بات۔ گورنر۔ بے فائدہ بات۔ بے تکی بات۔ اونٹ کا پاد زمین کا نہ آسمان کا [مثل] بے تکی بات۔ نہ ادھر کی نہ ادھر کی۔ اونٹ کا پاد اوپچا جائے [مثل] بڑوں کی برائی اور عجیب اکثر چھپے رہتے ہیں۔

اونٹ کٹارا۔ ایک خاردار رھاڑی جو زمین پر پھیلی ہے۔ اسے اونٹ بڑے شوق سے کھاتا ہے۔

اونٹ کو کون نے چھیر چھیلے [مثل] بے ضرورت باتیں کون کرتا ہے۔ اونٹ کی کپڑ اور عورت کے مکر سے خدا بچائے [مثل] اونٹ کی کپڑ اور پھر نہیں چھوڑنا۔ بدن کا حصہ آگ کر دینا ہے اور عورت کے مکر اور فریب انسان نہیں جان سکتا۔

اونٹ کی کپڑ کتے کی چھپٹ [مثل] اونٹ کپڑ لینا ہے تو چھوڑنا نہیں اور کتا جب کسی پر چھپتا ہے تو رکتا نہیں۔

اونٹ کی چوری چوری نہورے یا اونٹ کی چوری بھلکے بھلکے [مثل] ایسی برائی کی کوشش جو چھپ نہ سکتی ہو۔

اونٹ کی چوری سر پھیلنا۔ (معاورہ) اتنے بڑے جانور کی چوری چھپی نہیں ہتی اونٹ کے گنگے میں ہی۔ [مثل] (۱) بے میل فرشتہ (۲) بیجا اٹھا و اٹھل ہے کہ ایک شخص کا اونٹ گم ہو گیا۔ اس نے غم کھائی کہ اگر مل گیا تو

اہل - [ع - ۱ - مذ] (۱) صاحب مالک - خداوند (۲) کتبہ - خاندان (۳) لائق قابل بجز مندرجہ شریعت - بامرتب - میر چشم - جمع - اہلی - اہلیان - اہل اللہ - اللہ والے - بزرگان دین - خدا رسیدہ - عارف - اہل (باطن) دل - وہ لوگ جن کا دل صاف ہو - صاحب کشف و کرامات - اہل بیت - (۱) گھر کے - خاندانی رشتے دار متعلقین - کنبے والے کنبہ کے لوگ (۲) خصوصاً رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے کنبہ کے لوگ جن سے حضرت محمد رسول اللہ - علی - فاطمہ - حسن اور حسین مراد ہیں - اہل سنت - اہل سنت و جماعت مسلمانوں کا وہ فرقہ جو چاروں خلفا کو ماننا ہے - اہل تشیع شیعوں کو جو خلفائے راشدین میں سے صرف حضرت علیؑ کو مانتے ہیں - اہل جہوری - معتز شاخص کا گردہ جو عدالت کو مقدمہ کا فیصلہ کرنے میں مدد دیتا ہے - اہل حدیث - مسلمانوں کا ایک غیر مقلد فرقہ جو صرف قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کا دعویٰ ہے - اہل حرفہ - پیشہ ور - کاریگر - اہل خانہ - (۱) گھر کے لوگ (۲) گھروالی - بیوی - زوجہ - گھر کی مالک - اہل خوابات - [مذ] شراب خانے کے زند - مجازاً وہ لوگ جن کا ظاہر و باطن ایک جیسا ہو - اہل خرد - [ع - مذ] عقل مند لوگ - دانشور - اہل دل - [ع - مذ] اصل مند - ہمدرد (۲) سخی ہمدردی - اہل دنیا - دنیا کے لوگ - دنیا دار - دنیا کے بندے - اہل دولت - دولت مند - مال دار - امراء و نداد - اہل الملتے - دانش مند لوگ - عقل مند - اہل مذم - فوجی لوگ - سپاہی آدمی - اہل مددگار - زمانے کے لوگ - اہل زبان - [ع - مذ] کسی زبان کے ماہر وہ لوگ جن کی وہ مادری زبان ہو اور اس پر ان کو مکمل عبور حاصل ہو - اہل سخن - شاعر - اہل زبان - اہل سنت و الجماعت - سنت کے ماننے والے - سنی فرقہ - اہل سبب - تلوار والے - فوجی آدمی - اہل شر - [ع - مذ] شریروں کو - فسادی - اہل شرع - منشرع آدمی - شرع پر چلنے والے - اہل صفا - [ع - مذ] صاف باطن لوگ - نیک لوگ - اہل صفہ - [ع - مذ] دیکھے اصحاب صفہ - اہل صنعت - کاریگر - دستکار - اہل صورت - ظاہر بین لوگ - اہل طریقت - [ع - مذ] صوفی بزرگ - اہل نفاق - عارف لوگ - اولیاء اللہ - اہل عزت - ماتم کرنے والے - اہل علم - علم والے لوگ - اہل عرض - (۱) ضرورت والے - عرض مند - (۲) مطلب کا یا مطلبی -

اہل قبلہ - خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے والے مسلمان - اہل قرآن - مسلمانوں کا ایک عقلمانی فرقہ جو صرف قرآن کو ماننا ہے اور سنت و سنت کا منکر ہے - انھیں چکر ٹاوی کہتے ہیں - اہل قریہ - شہر کے لوگ - اہل قلم - پڑھے لکھے - منشی - مضمون نگار - اہل کار - کارندہ - عملہ - عامل - محرر وغیرہ - اہل کتاب (۱) کتاب والے (۲) ان پیغمبروں کے پیروجن پر آسمانی کتاب ندری - یہودی اور عیسائی اور مسلمان وغیرہ - اہل محلہ - محلہ والے - اہل ہمدرد - کسی ایک صیغے کا کام کرنے والا جس کے متعلق مسلوں کی ترتیب اور معمولی کاغذات کی تیاری ہوتی ہے - اہل معرفت - خدا پرست - پرہیزگار خدا کا عرفان رکھنے والے لوگ - عارف - اہل نشاط - [ع - مذ] عیش پرست لوگ (۲) ناپچھے والے لوگ (۳) طوائف اہل نظر - (۱) نظروالے - آنکھوں والے (۲) نگاہ میں اثر رکھنے والے (۳) نقاد ناپچھے والے - پرکھنے والے (۴) نظرباز جن پرست (۵) صاحب بصیرت لوگ - اہل دخیال - بال بچے - عیال و اطفال - گھر کے لوگ - اہل ہنر - ہنرمند صاحب فن - کام کے جاننے والے - اہل اوسلا و مرحبا - (آہ - کن - سہ - کن - نور - ح - بن) [ع] مطلب : نواب عزیزوں میں آیا ہے - نونہ نے نرم زمین کی سیر کی اور زیری جگہ فراخ ہے - ماحصل تیرا آنا مبارک ہے - خوش آمدید - اہلک - [ع - مذ] ہلاکت - بربادی - تباہی - اہلی - (آہ - لی) [ع - صف] پالنے والا اور - گھر بلیو جانور - اہلیت - (آہ - لی) [ع - صفت] (۱) بیافت - استعداد و قابلیت - بیافت (۲) کچھ تیز - اہلیت نہ رکھنا - (عماورہ) قابلیت نہ رکھنا - صلاحیت نہ رکھنا - اپنے گیلے - (آہ - لے - گر - لے) [ع - صف] غرور اور ناز و اتناز کی چال - اپنے گیلے پھرنے - خوش و خرم پھرنے - اتارے پھرنے - ناز اور نخرسے سے پھرنے - اہلبے - (آہ - لے) [ع - صفت] جوڑو - زوجہ - گھروالی - بیوی - خاتون خانہ - اہلجم - (آہ - جم) [ع - صفت] نہایت ضروری (۲) بہت مشکل - کھن - کوشا - اہل حال - [ع - مذ] اہل ہونا - بے پروائی - سستی - غفلت - تاخیر - اہلیت - (آہ - می) [ع - صفت] [ع - صفت] ضرورت - وقعت - عزت - حادوہ میں بسکون دوم و بلا تشدید یا مستعمل ہے - اہلون - (آہ - ہون) [ع - صفت] نہیں - اہلسا - (س - صفت) بچاؤ - عدم تشدد - سلامتی - اہل ہوس - اہل ہوس (آہ - ہوس) [ع - صفت] کلمہ تحسین و طمبات - اہل اہل - واہ واہ سبحان اللہ - اہل ہیر - (آہ - ہیر) [ع - صفت] گوالا - گائے بھینس چرانے اور دو ہڈ بچنے والا - ہندوؤں کی ایک ذات - اہل بھروں - [ع - مذ] ایک ماگ جو شیخ کے وقت گایا جاتا ہے - اہل ہیر - اہل ہیرنی - (آہ - ہیرنی) [ع - صفت] (آہ - ہیرنی) [ع - صفت] (آہ - ہیرنی) [ع - صفت] (آہ - ہیرنی) [ع - صفت]

(۱) گوالن (۲) امیر کی عورت (۳) امیر قوم کی عورت -

۶-۱

استلاف - (۱) اے - بت - لاف (ع - ا - مذ) [۱] میل ملاپ - اتحاد - محبت -
 (۲) بے تکلفی - تعلق (۳) خط و کتابت -
 ائمہ - (۱) عوم - مرد (ع - ا - مذ) [۱] امام کی جمع (۲) پیشوا (۲) نماز پڑھنے
 والے - پیش امام -

اے

اے - [ن] حرف ندا -
 اے باد صبا میں ہمہ آوردہ تست [تشیل] اے ہوا یہ سب تیرا ہی لیا
 ہوا ہے - یہ سارا فنا و نہا ہوا ہی اٹھا یا ہوا ہے -
 اے روشنی طبع تو برمن بلا شندی [تشیل] اے طبیعت کی تیزی تو میرے لئے
 معیبت بن گئی ہے - اس جگہ کہتے ہیں جہاں اپنی ہی ذیانت و یاقوت
 اپنے لیے نصیبت یا ضرر کا باعث بن جائے -
 اے زور خداوند لیکن تجھ پر ستار العجوب و قاضی الحاجاتی - [تشیل] (۱)
 اے زور خداوند نہیں ہے لیکن خدا کی قسم تو عیبوں کو چھپانے والا اور
 ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے (۲) روکھیا تمام عیبوں کو چھپاتا اور
 ضرورتوں کو پورا کرتا ہے -
 اے گل تو خود سدم تو بوسے کے داری - [ن] مثل [کسی عجز سے متعلق
 رکھنے] (منہ بست رکھنے) والی چیز کو دیکھ کر کہا جاتا ہے کہ میں تجھ سے
 خوش ہوں کہ تجھ پر کتنی مشابہت ہے -

اے لو - (رد مزہ) - یہ لہجے -
 اے واہ - کیوں نہ ہو - کیا خوب - طنز آکھتے ہیں -
 اے ولئے - ہائے افسوس -

اے وقت تو خوش کر وقت ما خوش کر دی - [تشیل] تو خوش رہے کہ تو نے
 ہمیں خوش کر دیا - دعا نیکو کہ یعنی تو نے ہمیں خوش کر دیا تو بھی خوش رہے -
 اے ہاں - نفرت یا بیزاری کے موقع پر یا بھولی ہوئی بات یاد آنے کے وقت
 عورتیں بولتی ہیں -

اے ہے - کلمہ افسوس جس میں کسی قدر تعجب کا بھی لگاؤ ہے -
 اے یہی تو ہے - قریب ہے - سامنے ہے - بہت نزدیک ہے -
 آیا زور خود شناسا - [تشیل] ایاز اپنی حیقت پہچان - اپنی حیثیت کا خیال
 کر کے بات کرنی چاہیے -

ایارغ - (۱) یارغ (ت - ا - مذ) پیالہ - جام - ساغر -
 ایال - (۱) بال (ا - مذ) [۱] ٹھوڑے کی گردن کے بلے بلے بال -
 جانور کی گردن کے بلے بال -

ایام - (۱) یام (ع - ا - مذ) [۱] یوم کی جمع - دن (۲) زمانہ (۳)
 حیض کے دن -

ایام اسود - تاریک دن - قمری مہینے کی ۲۸-۲۹ تاریخیں -
 ایام بعض - قمری مہینے کی ۱۳-۱۴-۱۵ تاریخ - روشن دن -
 ایام تشریق - (ع - مذ) عبدا لاصحی کے تین دن -
 ایام سے ہونا - حیض سے ہونا - کپڑوں سے ہونا -
 ایام گذاری - دن گزارنا - وقت کاٹنا -

ایام معلومات - ذی الحجہ کی پہلی تاریخ سے دسویں تک کے دس دن -
 ایانا - (ن - مذ) مور کھڑے ہونے - بچوں کے لیے نہال میں یہ لفظ اب بھی مستعمل
 ہے - سلطان قطب الدین کا ملاحق جس کا مرزا لاہور میں ہے -

ایبک - (اے - بک) (ت - ا - مذ) [۱] غلام (۲) قاصد - ہر کارہ (۳)
 معشوق - بہت - صنم -

ایپرن (Apron) (ایپ - رن) [انگ - اسڈ] پیش بندہ کپڑا
 جو کام کرنے وقت لباس کی حفاظت کے وقت آگے باندھ لیتے ہیں -

اینا - (ای - نا) (ت - ا - مذ) [۱] اب (۲) انا -
 اینام - (اے - نام) (ع - صغ) [نیم کی جمع] وہ بچے سچی کے باپ مرگے
 ہوں - بناٹی بول جاں میں زیادہ آتا ہے -

ایتر (ای - تر) [ہ صغ] کم ظرف - کمیتہ - بذیل - سفارہ - اوجھا -
 ایتر کے گھر تیز باہر ماندھوں کہ کھیترا [تشیل] اس کم ظرف کی نسبت
 کہتے ہیں - جس کو اپنی حیثیت سے بڑھ کر دولت اور زور حاصل ہوا ہے -

ایتلوف - (ای - ت - لاف) (ع - ا - مذ) [دیکھنے استلاف
 ایٹھر (Ether) (ای - ظر) [انگ - ا - مذ] ایک مائع چیز جو دواؤ
 میں کام آتی ہے - ایک مادہ جو ماہرین طبیعت کے نزدیک مفید

بھرا ہوا ہے - ایتر
 ایٹم (Atom) (اے - تم) [انگ - ا - مذ] ذرہ - (۱) ذرہ (۲) جوہر (۳)
 وہ چھوٹے سے چھوٹا ذرہ یا مادہ جو حکم کے قیام کی رائے میں تقسیم
 نہیں کیا جاسکتا تھا اور وہ اسے جزو لا تجزئی کہتے تھے مگر جدید سائنس
 نے اُسے توڑ کر اُس سے عظیم طاقت حاصل کی ہے -

ایٹم - ٹوپ کا گولہ جو ایٹمی طاقت سے چلتا ہے -
 ایٹمی - (اے - ٹ - می) (Atom) کا مورود صغ [ایٹم سے متعلق -
 ایٹم کا - جوہری -

ایٹمی طاقت - جوہری طاقت - وہ طاقت جو ایٹم سے حاصل جائے -
 ایٹم ہوم (At Home) [انگ] گھر پر - مکان میں - گھر پر دعوت کھلانا -
 ایٹی کیٹ (Etiquette) (ای - ٹی - کیٹ) [انگ - ا - مذ] آداب مجلس -
 ایثار - (ای - ثار) (ع - ا - مذ) اپنے سے دوسرے کا فائدہ مقدم کرنا - دوسرے
 کے نفع کو اپنے نفع پر ترجیح دینا -

ایجاب - (ای - جاب) (ع - ا - مذ) منظور کرنا - قبول کرنا -
 ایجاب و قبول - تہل و مشغور - نکاح کے وقت دہلاہن کی میاں پری
 بیٹنے کی منظوری -

ایجاد - (ای - جاد) (ع - ا - مذ) وجود میں لانا - نئی بات پیدا کرنا - اختراع
 جمع : ایجادات
 ایجاد بندہ - اگر تیرے گندہ - جب کوئی اپنی ہیودہ ایجاد کی تعریف کرنا ہے تو یہ

جلد طرز سے کہتے ہیں۔

ایجا ز۔ (ای۔ جاز) [ع۔ ا۔ مذ] چھوڑنا۔ مختصر کرنا۔

ایجنٹ (Agent) [انگ۔ ا۔ مذ] گمشدہ۔ سطحی۔ قائم مقام

ایجنڈا۔ (Agenda) [اے۔ جنڈا] [انگ۔ ا۔ مذ] کسی جلسے کا

کاروائی۔ نامہ پیش نامہ کسی اجنبی یا جماعت کی وہ نکتہ چینی جو اس کے اجلاس

قبل تمام ارکان کو بھیجی جاتی ہے اور اس میں وہ امور درج ہوتے ہیں جن پر

اجلاس میں بحث کی جاتی ہے۔

ایجنسی (Agency) [اے۔ جن۔ سی] [انگ۔ ا۔ مذ] کمیشن۔ آڈٹ

وہ دوکان جس کی معرفت کسی چیز کی خرید و فروخت ہو۔

ایجوکیشن (Education) تعلیم۔ وڈیا

ایچیٹیوٹر (Agitator) تحریک کرنے والا۔ جوش بھیلانے والا۔

ایچیٹیویشن (Agitation) [اے۔ جی۔ ٹے۔ ٹن] [انگ۔ ا۔ مذ]

ستیرگہ۔ شور۔ تحریک۔

ایچ پیج۔ (ایچ۔ پیج) [ہ۔ صف] چکر۔ مکر و فریب۔

ایڈوانس (Advance) [ایڈ۔ وائس] [انگ۔ ا۔ مذ] ترقی۔ پیشگی۔

ایڈوکیٹ (Advocate) [ایڈ۔ و۔ کیٹ] [انگ۔ ا۔ مذ] وکیل

دانی کورٹ میں پیش ہونے والا وکیل۔

ایڈوکیٹ جنرل۔ سرکاری وکیل جو صوبائی یا مرکزی حکومت کی جانب سے

دانی کورٹ میں پیش ہو۔

ایڈیٹر (Editor) مدیر۔ کسی کتاب۔ قلم۔ رپورٹ۔ اخبار یا رسالے

کو ترتیب دینے والا۔

ایڈیٹوریل (Editorial) [انگ۔ ا۔ مذ] ادارہ یا مقالہ انتساب۔

ایڈیشن (Edition) طبع۔ اشاعت۔

ایڈی کاٹنگ (Aid-De-Camp) [اے۔ ڈی۔ کانگ] [انگ۔ ا۔ مذ]

حاکم اعلیٰ کے ماتحت حکم بردار افسر۔ مصاحب۔

ایڈا۔ (ای۔ ڈا) [ع۔ ا۔ مٹ] [۱] دکھ دینا۔ تکلیف پہنچانا [۲] تکلیف

دکھ۔ اذیت۔

ایڈا جنڈہ (رساں) [ف۔ صف] تکلیف دینے والا۔

ایڈا طلبی۔ [ف۔ مٹ] تکلیف چاہنا۔

ایرا۔ اروپ۔ [ا۔ مذ] شطرنج میں ایک فہرہ جو بادشاہ کو شکست سے بچانے

کے لیے بیچ میں ڈالا جاتا ہے [۲] آڑ۔ بلاک۔

ایرا پھیری۔ [اے۔ وا۔ پھے۔ ری] [ع۔ ا۔ مٹ] ہیرا پھیری۔ لوٹ پلٹ

بار بار آنا جانا۔

ایرا۔ (ای۔ را۔) [ع۔ ا۔ مذ] اعراض۔ عیب جوئی۔

ایرا خیرا۔ [اے۔ وا۔ مے۔ ما] [ع۔ ا۔ مذ] [۱] اجنبی [۲] ادھر ادھر کا [۳]

معمولی حیثیت کا آدمی۔

ایرا خیرا نخصو خیرا۔ کم حیثیت آدمی۔ ادنیٰ حیثیت والا۔ ہر کوئی۔

ایران توران کرنا۔ [آ۔ رمص] زمین و آسمان کے فدا بے ملانا۔ فضول اور

مبالغے کی گفتگو کرنا۔ تلاش کرنا۔

ایرانی۔ (ای۔ را۔ نی) [ف۔ صف] ایران سے منسوب۔ ایران کا باشندہ۔

ایران کی کوئی شے۔

ایرا پھیر۔ (ایرا پھیر) [ع۔ ا۔ مٹ] [۱] بار بار مال کی خرید و فروخت [۲]

چالاکی۔ فریب۔

ایرا پھیر کے تو لانا۔ جس کو کبھی ایک پلٹے میں اور کبھی دوسرے میں رکھ کر

تو لانا تاکہ پاسنگ کی کمی زیادتی نہ رہے۔

ایرا پھیرے۔ [اے۔ رے۔ پھے۔ رے] [ع۔ ا۔ مذ] بار بار آنا جانا۔

ایرا پھیرے۔ [اے۔ رے۔ مے۔ رے] [ع۔ ا۔ مذ] اجنبی معمولی آدمی

کم حیثیت۔

ایرا پھیرے۔ [اے۔ رے۔ مے۔ رے] [ع۔ ا۔ مذ] [۱] اجنبی لوگ۔ دیکھیے ایرا خیرا۔

ایرا پھیرا۔ (Area) [ای۔ بی۔ ا۔ مٹ] [انگ۔ ا۔ مذ] [۱] ارضی۔ زمین [۲] ترقی۔ علاقہ۔

ایرا پھیرا۔ (Aerial) [ای۔ ری۔ ایل] [انگ۔ صف] [۱] صفائی۔ ہوائی [۲] [مذ]

واٹر بس یا ریڈیو۔ ٹی۔ وی کا وہ تار جو فضا سے ہوائی لہریں وصول کرنا ہے

ایرا۔ [ع۔ ا۔ مٹ] [ہمز۔ ایڑی۔

ایڑی لگانا کرنا۔ (مجادد) یاؤں کی ایڑی سے گھوڑے کو دوڑنے کا اشارہ کرنا

ایڑی لگانا۔ ایڑی کی چوٹ لگانا۔

ایڑی مارنا۔ (مجادد) ہوتے ہوئے کلم میں ڈنگ لگانا دینا [۲] اُسامنا۔ اُہانارام) گھوڑے

کو چلانا۔

ایڑی۔ [اے۔ ڈی] [ع۔ ا۔ مٹ] [۱] ٹخنے کے نیچے پیر کی گدی کا حصہ جو تلے

کا پچھلا حصہ۔

ایڑی چوٹی پر سے وارنا۔ ایڑی چوٹی پر سے قربان کرنا۔ ایڑی چوٹی پر سے

نثار کرنا۔ (مجادد) خیر و ذلیل چھنا۔ ذرا عورت نہ کرنا۔

ایڑی چوٹی پر سے کھڑے کھڑے (مجادد) ایڑی چوٹی پر قربان کرنا۔ اپنے

سر پاؤں پر سے قربان کرنا۔

ایڑی چوٹی کا پسینہ (ایک کر دینا) ہما دینا۔ (مجادد) سر کا پسینہ پاؤں

کے پسینے سے جاملنا۔ ہمت زیادہ کوشش کرنا بے انتہا جدوجہد کرنا۔

ایڑی چوٹی کا زور لگانا (مجادد) پوری کوشش کرنا۔

ایڑی دیکھنا۔ (مجادد) نظر بدوڑ کر کرنے کے لیے کسی عجز بڑی ایڑی

پر نظر ڈالنا۔

ایڑی سے چوٹی تک [۱] سر سے پاؤں تک [۲] اول سے آخر تک۔

ایڑی کا پسینہ سر کو آنا۔ حد سے زیادہ دوڑ دھوپ کرنا۔

ایڑیاں رگڑنا۔ (مجادد) بڑی تکلیف کے ساتھ چلنا [۲] نہایت مصیبت

کے ساتھ زندگی گزارنا [۳] آخری عمر کی بیماریاں چھیننا [۴] ہٹ کرنا

چھلنا [۵] جانگمی کی اذیت اٹھانا۔

ایڑیاں رگڑنا (مجادد) خواب کے کھٹ و مشقت کرا کے۔

ایڑیاں رگڑنا (مجادد) بہت زیادہ خوشیاں دیکھ کر نا بے حد دوڑ دھوپ کرنا۔

ایڑیاں چھس جانا۔ (مجادد) ہمت دوڑ دھوپ کرنا۔ ہمت کھٹ کرنا۔

ایڑیاں چھس گئیں۔ (مجادد) انتہائی دوڑ دھوپ کی بے حد کوشش کی

ایڑا۔ (ای۔ زاد) [ع۔ ا۔ مذ] زیادہ کرنا۔ اضافہ۔ زیادتی۔

ایڑا۔ (ای۔ زا۔ دی) [ع۔ ا۔ مٹ] زیادتی۔

ایزو۔ (اسے۔ زد) [ت۔ امٹ] اشد تعالیٰ خدا کے کویم۔
 ازدی۔ (اسے۔ زد) [ف۔ صفت] ازد سے منسوب۔ خدائی۔
 آتیا۔ (اسے۔ سا) [ہ] اس قسم کا۔ اس دھنگ کا۔ اس طرح کا۔ اس انداز۔
 ایسا تیا۔ معمولی فضول۔ کینہ۔ نالائق۔ کلہر خحارت۔
 ایسا جیسے بڑے کے طے بھنار لیتے [مثل] صفات معاملہ اور کھرا آدمی۔
 ایسا کیا گیا کہ راسے۔ بالکل نکمہ تو نہیں ہے۔ انا ذیل و خوار نہیں ہے۔
 ایسا کیا گزرا ہے۔ بالکل نکمہ ہے۔ فضول ہے۔
 ایسا منہ نہیں۔ انا ہمت نہیں۔ انا جو صلہ نہیں۔
 ایسا بیٹھا کیا ہے۔ کچھ فائدہ نہیں۔ نفع کیا ہے۔
 ایسا نہ کلنا جواب نہ ہونا۔ محسرت ہونا۔
 کسا نہ ہو۔ خدا نہ کرے۔ خدا نخواستہ۔ مبادا۔
 ایسا ویسا۔ (۱) برابلا (۲) ادنیٰ۔ کم قدر۔ کینہ۔ گھٹیل (۳) بے اعتبار۔ نکمہ
 ناکارہ۔ ناجیز (۴) دایا ہمت۔ بہرہ۔
 ایسا ویسا بھانا نہیں خوان ملو کا آنا نہیں [مثل] جو قیر سے وہ پند نہیں
 بادشاہی کھا نا نصیب نہیں۔ مخارج میں شاہی مزاج ہیں۔

ایسے۔ (اے۔ سے) [ہ] اس دھنگ سے۔ اس طرح سے۔
 ایسے برتاؤ ایسی کا جمل ڈال لینے پر کسی [مثل] بغیر بناؤ سنگار کے
 تو یہ کیفیت ہے۔ بناؤ سنگار پر کیا حال ہوگا۔
 ایسے پرتین حرفت بھیتے ہیں (معاوہ) نص طعن کرتے ہیں۔ برا جاتے ہیں۔
 ایسے تو میری حسیب میں پیشے دہتے ہیں (معاوہ) تم جیسے کسوں کو
 چلا دیتا ہوں میں تمھارے فریب میں نہیں آسکتا ہوں۔
 ایسے کہاں کے ہیں۔ (معاوہ) ایسے کیا سرخاب کے پڑے ہوں۔ کہاں
 کے جوڑی ہیں۔ کون سی خصوصیت ہے۔

ایسے کیا لعل لگے ہیں۔ (معاوہ) ایسی کون عجیب بات ہے۔
 ایسے کیا کیڑے پڑے ہیں (معاوہ) کہا خرابی ہے۔ کہا بُرائی ہے۔
 ایسے کیڑے پڑیں گے۔ (معاوہ) ایسی بُری حالت ہوگی۔
 ایسے گئے جیسے گدھے کے سر سے سینک (معاوہ) عمدہ محض ہو گئے
 نشان تک باقی نہیں رہا۔ ایسے غائب ہوئے کہ پتہ تک نہ لگا۔
 ایسے لڑکے بہت کھلائے ہیں۔ (معاوہ) میری حسیب میں ایسے
 بہت پڑے ہیں۔

ایسے پیرے بھولے۔ جب کوئی شخص جان بوجھ کر نادانف بناتا ہے
 تو اس کو طنزاً کہتے ہیں۔
 ایسے میں۔ اس حالت میں۔ ایسے موقع پر۔ اس دوران۔
 ایسے ویسے۔ معمولی۔ کم درجہ کے۔
 ایسے ہوتے تو بقر عید کے کام آتے۔ نکلے آدمی کی نسبت کہتے ہیں
 جو کسی قابل نہ ہو۔

ایسے ہی۔ اسی طرح۔ بغیر کسی وجہ یا سبب کے۔
 ایسے ہی بھولے ہیں (طنزیہ) یعنی نادان نہیں ہیں بڑے ہوشیار لو جو چلاک ہیں
 ایسٹو۔ (ای سٹو) [انگ۔ مذ] (۱) اجرا (۲) شمارہ (اخبار
 وغیرہ کا) (۳) متنازعہ ذریعہ مسک۔
 ایسٹور۔ (ایسٹ۔ دور) [س۔ مذ] پرمیٹور۔ بھگوان۔ خدا۔ اللہ۔
 ایشیا۔ [انگ۔ مذ] دنیا کا سب سے بڑا براعظم، جس کے مشرق میں بحر الکاہل
 شمال میں بحر منجمد شمالی، جنوب میں بحر ہند اور مغرب میں بحیرہ روم ہے
 برصغیر یا کہ دہند کے عماک آبی براعظم میں ہیں۔
 ایشیائی۔ (اسے۔ ش۔ یا۔ ای) [ا۔ ر۔ صفت] براعظم ایشیا سے نسبت رکھنے

ایسٹ۔ (ای۔ ایس۔ ٹو) [انگ۔ مذ] (۱) اجرا (۲) شمارہ (اخبار
 وغیرہ کا) (۳) متنازعہ ذریعہ مسک۔
 ایسٹور۔ (ایسٹ۔ دور) [س۔ مذ] پرمیٹور۔ بھگوان۔ خدا۔ اللہ۔
 ایشیا۔ [انگ۔ مذ] دنیا کا سب سے بڑا براعظم، جس کے مشرق میں بحر الکاہل
 شمال میں بحر منجمد شمالی، جنوب میں بحر ہند اور مغرب میں بحیرہ روم ہے
 برصغیر یا کہ دہند کے عماک آبی براعظم میں ہیں۔
 ایشیائی۔ (اسے۔ ش۔ یا۔ ای) [ا۔ ر۔ صفت] براعظم ایشیا سے نسبت رکھنے

ایسٹ۔ (ای۔ ایس۔ ٹو) [انگ۔ مذ] (۱) اجرا (۲) شمارہ (اخبار
 وغیرہ کا) (۳) متنازعہ ذریعہ مسک۔
 ایسٹور۔ (ایسٹ۔ دور) [س۔ مذ] پرمیٹور۔ بھگوان۔ خدا۔ اللہ۔
 ایشیا۔ [انگ۔ مذ] دنیا کا سب سے بڑا براعظم، جس کے مشرق میں بحر الکاہل
 شمال میں بحر منجمد شمالی، جنوب میں بحر ہند اور مغرب میں بحیرہ روم ہے
 برصغیر یا کہ دہند کے عماک آبی براعظم میں ہیں۔
 ایشیائی۔ (اسے۔ ش۔ یا۔ ای) [ا۔ ر۔ صفت] براعظم ایشیا سے نسبت رکھنے

ایسٹ۔ (ای۔ ایس۔ ٹو) [انگ۔ مذ] (۱) اجرا (۲) شمارہ (اخبار
 وغیرہ کا) (۳) متنازعہ ذریعہ مسک۔
 ایسٹور۔ (ایسٹ۔ دور) [س۔ مذ] پرمیٹور۔ بھگوان۔ خدا۔ اللہ۔
 ایشیا۔ [انگ۔ مذ] دنیا کا سب سے بڑا براعظم، جس کے مشرق میں بحر الکاہل
 شمال میں بحر منجمد شمالی، جنوب میں بحر ہند اور مغرب میں بحیرہ روم ہے
 برصغیر یا کہ دہند کے عماک آبی براعظم میں ہیں۔
 ایشیائی۔ (اسے۔ ش۔ یا۔ ای) [ا۔ ر۔ صفت] براعظم ایشیا سے نسبت رکھنے

ایسٹ۔ (ای۔ ایس۔ ٹو) [انگ۔ مذ] (۱) اجرا (۲) شمارہ (اخبار
 وغیرہ کا) (۳) متنازعہ ذریعہ مسک۔
 ایسٹور۔ (ایسٹ۔ دور) [س۔ مذ] پرمیٹور۔ بھگوان۔ خدا۔ اللہ۔
 ایشیا۔ [انگ۔ مذ] دنیا کا سب سے بڑا براعظم، جس کے مشرق میں بحر الکاہل
 شمال میں بحر منجمد شمالی، جنوب میں بحر ہند اور مغرب میں بحیرہ روم ہے
 برصغیر یا کہ دہند کے عماک آبی براعظم میں ہیں۔
 ایشیائی۔ (اسے۔ ش۔ یا۔ ای) [ا۔ ر۔ صفت] براعظم ایشیا سے نسبت رکھنے

ایسٹ۔ (ای۔ ایس۔ ٹو) [انگ۔ مذ] (۱) اجرا (۲) شمارہ (اخبار
 وغیرہ کا) (۳) متنازعہ ذریعہ مسک۔
 ایسٹور۔ (ایسٹ۔ دور) [س۔ مذ] پرمیٹور۔ بھگوان۔ خدا۔ اللہ۔
 ایشیا۔ [انگ۔ مذ] دنیا کا سب سے بڑا براعظم، جس کے مشرق میں بحر الکاہل
 شمال میں بحر منجمد شمالی، جنوب میں بحر ہند اور مغرب میں بحیرہ روم ہے
 برصغیر یا کہ دہند کے عماک آبی براعظم میں ہیں۔
 ایشیائی۔ (اسے۔ ش۔ یا۔ ای) [ا۔ ر۔ صفت] براعظم ایشیا سے نسبت رکھنے

ایسٹ۔ (ای۔ ایس۔ ٹو) [انگ۔ مذ] (۱) اجرا (۲) شمارہ (اخبار
 وغیرہ کا) (۳) متنازعہ ذریعہ مسک۔
 ایسٹور۔ (ایسٹ۔ دور) [س۔ مذ] پرمیٹور۔ بھگوان۔ خدا۔ اللہ۔
 ایشیا۔ [انگ۔ مذ] دنیا کا سب سے بڑا براعظم، جس کے مشرق میں بحر الکاہل
 شمال میں بحر منجمد شمالی، جنوب میں بحر ہند اور مغرب میں بحیرہ روم ہے
 برصغیر یا کہ دہند کے عماک آبی براعظم میں ہیں۔
 ایشیائی۔ (اسے۔ ش۔ یا۔ ای) [ا۔ ر۔ صفت] براعظم ایشیا سے نسبت رکھنے

ایسٹ۔ (ای۔ ایس۔ ٹو) [انگ۔ مذ] (۱) اجرا (۲) شمارہ (اخبار
 وغیرہ کا) (۳) متنازعہ ذریعہ مسک۔
 ایسٹور۔ (ایسٹ۔ دور) [س۔ مذ] پرمیٹور۔ بھگوان۔ خدا۔ اللہ۔
 ایشیا۔ [انگ۔ مذ] دنیا کا سب سے بڑا براعظم، جس کے مشرق میں بحر الکاہل
 شمال میں بحر منجمد شمالی، جنوب میں بحر ہند اور مغرب میں بحیرہ روم ہے
 برصغیر یا کہ دہند کے عماک آبی براعظم میں ہیں۔
 ایشیائی۔ (اسے۔ ش۔ یا۔ ای) [ا۔ ر۔ صفت] براعظم ایشیا سے نسبت رکھنے

والی کوئی شے - اینٹیا کا بانسہ -

ایصال - (ایصال) [ع - ا - مذ] (۱) پہچانا - ملانا - (۲) وصول کرنا - ایصال تو اب - ثواب پہچانا -

ایصال حرارت - علم طبعی میں وہ عمل جس کے ذریعے سے سیال اشیاء میں حرارت ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جاتی ہے -

ایصال مال گذاری - مال گذاری وصول کرنا - یا داخل کرنا -

ایضاً - (لے ضن) [ع] وہی - بشرط صدہ - ویسا ہی - اسی طرح کا - جیسا - ایضاح (ایضاح) [ع - ا - مذ] روش کرنا - ظاہر کرنا - وضاحت کرنا - ایطلا - (ایطلا) [ع - ا - مذ] (۱) رونما - پامال کرنا (۲) اصطلاح عرض میں ایک

ہی فائنٹے کو لفظاً "مننا" ایک شعر کے دونوں مصرعوں میں لانا - ایطائے جلی - شعر میں فائنٹے کی خوب واضح نگار - شعر کے دونوں مصرعوں کے فائنٹے کو لفظاً "مننا" مکرر لانا جیسے (درد) ہے

مرد یا دیر نیا کعبہ یا بنت خانہ کعبہ میں کئی جگہ ایسی جگہیں تھیں جہاں سے ان توہی تو صاحبِ خانہ کعبہ ایطائے تھی - شعر کے جن تاویروں میں تکرار کی طرف ذہن فوراً منتقل نہ ہو مثلاً (ناخ) سے معطر ان کے نسلے سے لیکر آب ہوا - جہاں بحر ہر ایک شیشہ کلاب ہوا ایفا - (ای - فا) [ع - ا - مذ] پورا کرنا - وفا کرنا - ادا کرنا - ایفائے عمد (عمد) عمد پورا کرنا - قول و فرائض پورا کرنا -

ایفائے عمد (عمد) عمد پورا کرنا - قول و فرائض پورا کرنا - ایفائے عمد (عمد) عمد پورا کرنا - قول و فرائض پورا کرنا - ایفائے عمد (عمد) عمد پورا کرنا - قول و فرائض پورا کرنا - ایفائے عمد (عمد) عمد پورا کرنا - قول و فرائض پورا کرنا -

ایفائے عمد (عمد) عمد پورا کرنا - قول و فرائض پورا کرنا - ایفائے عمد (عمد) عمد پورا کرنا - قول و فرائض پورا کرنا - ایفائے عمد (عمد) عمد پورا کرنا - قول و فرائض پورا کرنا - ایفائے عمد (عمد) عمد پورا کرنا - قول و فرائض پورا کرنا -

ایفائے عمد (عمد) عمد پورا کرنا - قول و فرائض پورا کرنا - ایفائے عمد (عمد) عمد پورا کرنا - قول و فرائض پورا کرنا - ایفائے عمد (عمد) عمد پورا کرنا - قول و فرائض پورا کرنا - ایفائے عمد (عمد) عمد پورا کرنا - قول و فرائض پورا کرنا -

ایفائے عمد (عمد) عمد پورا کرنا - قول و فرائض پورا کرنا - ایفائے عمد (عمد) عمد پورا کرنا - قول و فرائض پورا کرنا - ایفائے عمد (عمد) عمد پورا کرنا - قول و فرائض پورا کرنا - ایفائے عمد (عمد) عمد پورا کرنا - قول و فرائض پورا کرنا -

ایفائے عمد (عمد) عمد پورا کرنا - قول و فرائض پورا کرنا - ایفائے عمد (عمد) عمد پورا کرنا - قول و فرائض پورا کرنا - ایفائے عمد (عمد) عمد پورا کرنا - قول و فرائض پورا کرنا - ایفائے عمد (عمد) عمد پورا کرنا - قول و فرائض پورا کرنا -

ایفائے عمد (عمد) عمد پورا کرنا - قول و فرائض پورا کرنا - ایفائے عمد (عمد) عمد پورا کرنا - قول و فرائض پورا کرنا - ایفائے عمد (عمد) عمد پورا کرنا - قول و فرائض پورا کرنا - ایفائے عمد (عمد) عمد پورا کرنا - قول و فرائض پورا کرنا -

ایفائے عمد (عمد) عمد پورا کرنا - قول و فرائض پورا کرنا - ایفائے عمد (عمد) عمد پورا کرنا - قول و فرائض پورا کرنا - ایفائے عمد (عمد) عمد پورا کرنا - قول و فرائض پورا کرنا - ایفائے عمد (عمد) عمد پورا کرنا - قول و فرائض پورا کرنا -

ایفائے عمد (عمد) عمد پورا کرنا - قول و فرائض پورا کرنا - ایفائے عمد (عمد) عمد پورا کرنا - قول و فرائض پورا کرنا - ایفائے عمد (عمد) عمد پورا کرنا - قول و فرائض پورا کرنا - ایفائے عمد (عمد) عمد پورا کرنا - قول و فرائض پورا کرنا -

ایفائے عمد (عمد) عمد پورا کرنا - قول و فرائض پورا کرنا - ایفائے عمد (عمد) عمد پورا کرنا - قول و فرائض پورا کرنا - ایفائے عمد (عمد) عمد پورا کرنا - قول و فرائض پورا کرنا - ایفائے عمد (عمد) عمد پورا کرنا - قول و فرائض پورا کرنا -

ایفائے عمد (عمد) عمد پورا کرنا - قول و فرائض پورا کرنا - ایفائے عمد (عمد) عمد پورا کرنا - قول و فرائض پورا کرنا - ایفائے عمد (عمد) عمد پورا کرنا - قول و فرائض پورا کرنا - ایفائے عمد (عمد) عمد پورا کرنا - قول و فرائض پورا کرنا -

ایفائے عمد (عمد) عمد پورا کرنا - قول و فرائض پورا کرنا - ایفائے عمد (عمد) عمد پورا کرنا - قول و فرائض پورا کرنا - ایفائے عمد (عمد) عمد پورا کرنا - قول و فرائض پورا کرنا - ایفائے عمد (عمد) عمد پورا کرنا - قول و فرائض پورا کرنا -

ایفائے عمد (عمد) عمد پورا کرنا - قول و فرائض پورا کرنا - ایفائے عمد (عمد) عمد پورا کرنا - قول و فرائض پورا کرنا - ایفائے عمد (عمد) عمد پورا کرنا - قول و فرائض پورا کرنا - ایفائے عمد (عمد) عمد پورا کرنا - قول و فرائض پورا کرنا -

ایک آنکھ - ایک آنکھ - دونوں سے کیساں محبت ہے - دونوں برابر ہیں - ایک آنکھ کے تین ہیں - [مثلاً] سب ایک ہی جیسے ہیں -

ایک اکیلا دو کا میلا - محبت اور اتفاق ہیں برکت ہے -

ایک انار سو ہمار - [مثلاً] ایک چیز کے بہت سے خواہش مند ہونا -

ایک انڈا وہی گندا - [مثلاً] ایک بیٹا وہی نالائق - تھوڑی اور خراب چیز -

ایک اور ایک گیارہ - اتفاق ہونو طافت بن جاتی ہے - در آدمیوں میں اتفاق ہونو بڑا کام ہوجاتا ہے -

ایک اور (دس) سو کا فرق - (معاورہ) بہت زیادہ فرق -

ایک ایک - ہر ایک - سب - فرداً فرداً - باری باری -

ایک ایک ادا بر لوٹ جانا - (معاورہ) خدا ہو جانا - کسی کی ہر ایک بات کو پسند کرنا -

ایک ایک دم سو سو رنگ بدلتا ہے - (معاورہ) ایک بات پر تمام نہیں رہتا - گھڑی میں کچھ گھڑی میں کچھ -

ایک ایک دن ایک ایک چیمنے کے برابر ہوتا ہے - (معاورہ) آٹھ کا زمانہ بڑی مشکل سے گزرتا ہے -

ایک ایک دو دو - باری باری - آگ - آگ - جلا جلا -

ایک ایک قدم ایک منزل ہونا - (معاورہ) سخت ریخ یا تلکان سے قدم اٹھانا - ہر قدم بڑھنا -

ایک ایک کا دم میں کپڑے کے رونا - (معاورہ) ہر ایک کے سامنے اپنا دکھ بیان کرنا - ہر ایک سے مدد چاہنا -

ایک ایک کا منہ (زنگھن) دیکھنا - (معاورہ) حیرت اور حشرت کے عالم میں ہونا (۲) ہر ایک سے امید رکھنا - محتاجی کا عالم -

ایک ایک کر کے (۱) رفتہ رفتہ - ایک ایک کو چھین کر (۲) سب گل - (۳) فرداً فرداً - جدا جدا -

ایک ایک کی جا رہا رکھنا - (معاورہ) مبالغے کے ساتھ جھلی کھانا نذر کیا بات کو بڑھا کر بیان کرنا -

ایک ایک کے دس دس ہونا - (معاورہ) تجارت میں زیادہ مانع ہونا -

ایک ایک کے دو دو (کرنا) ہونا - (معاورہ) تجارت میں دگنا نفع کمانا دگنا نفع ہونا -

ایک ایک گھڑی (بھاری) پیار ہونا - (معاورہ) ایک ایک کو مشکل سے گزرتا -

ایک ایک گھڑی گنتا - (معاورہ) وقت نشاری کرنا - شدت انتقال کا اظہار -

ایک اینٹ کے لیے مسجد ڈھانا - (معاورہ) تھوڑے سے فائدے کے لیے بہت سائنقصان گوارا کرنا - دنیا کے واسطے دین کھونا -

ایک بات - (۱) ادنیٰ و سہل کام (۲) واحد معاملہ (۳) ٹھیک قیمت (۴) پختہ اور عقول بات -

ایک بات تھی کہ منہ سے نکل گئی - [مثلاً] معانی مانگنے کے موقع پر کہا جاتا ہے - معمولی بات تھی جو کہی گئی -

ایک بات میں - ذرا سی جھجک لیں - ادنیٰ سے اشارہ سیں -

ایک بات میں سو منہ سے دیکھنا - (معاورہ) ایک ہی چیز سے طرح طرح کے کھٹک اٹھانا -

ایک آنکھ سے سب کو دیکھنا - (معاورہ) سب کو کیساں سمجھنا - انصاف پسند ہونا -

ایک آنکھ میں - ایک نظر ہیں -

ایک آنکھ میں لہر لہر ایک آنکھ میں خدا کا تہ - [مثلاً] تھوڑی دیر میں مہربان - تھوڑی دیر میں ناراض - ایک عزیز پر مہربانی اور دوسرے سے ناراضی ظاہر کرنا -

ایک آنکھ نہ بھانا - ذرا پسند نہ آنا - بالکل نہ بھانا -

ایک آنکھ سے سب کو دیکھنا - (معاورہ) سب کو کیساں سمجھنا - انصاف پسند ہونا -

ایک آنکھ میں - ایک نظر ہیں -

ایک آنکھ میں لہر لہر ایک آنکھ میں خدا کا تہ - [مثلاً] تھوڑی دیر میں مہربان - تھوڑی دیر میں ناراض - ایک عزیز پر مہربانی اور دوسرے سے ناراضی ظاہر کرنا -

ایک آنکھ نہ بھانا - ذرا پسند نہ آنا - بالکل نہ بھانا -

ایک آنکھ سے سب کو دیکھنا - (معاورہ) سب کو کیساں سمجھنا - انصاف پسند ہونا -

ایک آنکھ میں - ایک نظر ہیں -

ایک آنکھ میں لہر لہر ایک آنکھ میں خدا کا تہ - [مثلاً] تھوڑی دیر میں مہربان - تھوڑی دیر میں ناراض - ایک عزیز پر مہربانی اور دوسرے سے ناراضی ظاہر کرنا -

ایک آنکھ نہ بھانا - ذرا پسند نہ آنا - بالکل نہ بھانا -

ایک تنکے کا بھی احسان بھاری ہوتا ہے۔ احسان کنہا ہی فخور کیوں نہ ہوئے
احسان مند براس کا بار بہت ہوتا ہے۔

ایک تنکے کا سہارا بھی بہت ہوتا ہے۔ ناداری اور بے کسی میں فخور اس
سہارا بھی بہت قیمت معلوم ہوتا ہے۔

ایک تنکے کا سہارا انہیں [بٹل] کسی سے امداد کی توقع نہیں ہے۔
ایک تو۔ اول تو یہ پیلے تو۔

ایک نوآب دوسرے بغل چاب (معاورہ) اول تو خود ہی بے مرق اور بے وقت
آئے اور دوسرے اپنے ساتھ ایک اور کو بھی لگا لائے۔

ایک تو فضا ہی دیوا ادا اس پر آئی ہمار [بٹل] آوارہ کے لیے آوارگی کا سامان
بھی تیار ہو گیا۔

ایک تو جو ری اس پر سینہ زوری۔ [بٹل] تصور کر کے اٹا ڈھٹائی کی باتیں کرنا۔
ایک تو غیر دوسرے بجز عینے۔ [بٹل] ایک تو عیب اور نقصہ درختے ہی

دوسرے ذی اختیار بھی ہو گئے۔

ایک تو کافی جانی (بیٹی) دوسرے کو پھینچنے والوں نے جان کھائی [بٹل] عیب
کو ایک تو اپنے عیب کا افسوس۔ دوسرے لوگ اس کا ذکر کھینچتے ہیں
اور بھی شرمندہ کرتے ہیں۔

ایک تو کڑوا کر بلا دوسرے پیم چڑھا۔ [بٹل] ایک تو بڑے غم ہی دوسرے
اور بھی برا بھلا کے اسباب بنیا ہو گئے۔

ایک تو میاں اوتھنے اس پر کھائی جھٹک [بٹل] کاہل آدمی کا کاہلی بڑھانے
دلے کام کرنا۔

ایک تو سے کی رٹی کیا چھوٹی یا موٹی۔ [بٹل] ایک خاندان کے لوگ ایک ہی نظر
سے دیکھ جاتے ہیں حیثیت و صورت شکل کی کمی بیشی کا لحاظ نہیں کیا جاتا۔

ایک تیر سائے میں لگا (معاورہ) بہت سخت رنج ہوا۔ بہت دکھ ہوا۔
ایک تھیلی کے چنے بیٹے (معاورہ) سب ایک سے ہیں کوئی نیک نہیں سب شرم ہیں۔

ایک ٹانگ پھرنے۔ (معاورہ) برابر پھرتے رہنا۔ ایک دم پھر سے جانا۔
ایک ٹنگ (۱) لگانا۔ تورا تورا بغیر ٹنگ چھپکے۔

ایک ٹنگے پر سجدہ دھانا۔ ایک اینٹ کے لیے سجدہ ڈھانا۔ ذرا سے نفع کے لیے دین
برباد کرنا۔

ایک ٹنگا۔ ایک ٹانگ کا لنگڑا

ایک ٹھوکر سے آکھ کی چوٹی اتر گئی۔ (معاورہ) ایک ہی صدمہ سے عقل ٹھکانے لگتی۔
ایک جان دو تن۔ ایک جان دو قالب۔ کمال اتحاد و انتہائی دوستی۔ کھری دوستی۔

ایک جان کرنا۔ کئی چیزوں کا باہکل مل جانا۔
ایک جان ہزار امید۔ ایک جان ہزار رمان۔ زندگی بھر آدمی کے ساتھ ہزاروں

امیدیں لگی رہتی ہیں۔
ایک جان ہونا۔ کئی چیزوں کا باہکل مل جانا۔

ایک جاننا۔ برابر جاننا۔ یگانہ سمجھنا۔

ایک جان سے جا ہے خدا لے جا ہے بندہ [بٹل] جب کوئی مشکل کام آ کرنا
اور جان کی پروا نہ کی جائے تو کہتے ہیں۔

ایک جینکے میں دو تیر نہیں رہ سکتے۔ ایک میان میں دو چہرے نہیں رہ سکتیں۔
ایک جہان کی تکلیف۔ تمام دنیا کی مقبیت۔

ایک بات ہزار منہ۔ [بٹل] اس جگہ کہتے ہیں جب کسی امر میں ہر شخص نئی بات
کے۔ ایک ہی موضوع پر مختلف باتیں بننا۔

ایک بات ہونا۔ (معاورہ) معمولی بات ہونا۔ کچھ بھی اہم نہ ہونا۔

ایک بات ہے۔ (معاورہ) اس کی کوئی اہمیت نہیں (۲) ادنیٰ اور آسان ہے بہت مشکل۔
(۳) ایک خاص اور لمبے (۴) معاملہ واحد ہے (۵) یکساں ہے کچھ فرق ہے (۶) افواہ ہے

ایک (بار) بارگی۔ ایک دفعہ۔ ایک مرتبہ (۲) دفعتاً۔ اچانک۔ ناگماں۔

ایک بازار ہر ہونا (معاورہ) ایک جہم ہونا۔ کانا ہونا۔

ایک بال چیل نہیں۔ [بٹل] سرمو فرق نہیں۔

ایک بال کامل۔ [بٹل] حسن کی تعریف میں بے لطفے کے طور پر کہتے ہیں کہ وہ ایسا
حسین ہے کہ انہی قیمت تو اس کے ایک بال کامل نہیں۔

ایک بغل ہوجاؤ۔ (معاورہ) بیچ سے ہٹ جاؤ۔ ایک طرف ہوجاؤ۔

ایک بھی نہ ماننا۔ (معاورہ) کسی بات پر بھی ماضی نہ ہونا۔

ایک پانی ناؤ کو لے ڈونہ ہے (مقولہ) ایک شخص کی بڑی سے گھر کا گھر بنام یا بڑا بڑا جانا
ایک پانی۔ بارش کا ایک جھالا۔

ایک پانی کی کسر ہے۔ ایک بارش کی اور حاجت ہے۔ ایک پانی اور سینچنے کی ضرورت ہے۔

ایک پاؤں پھرنے (معاورہ) برابر پھرنے رہنا۔ دم نہ لینا۔ بہت دوڑ دوڑ ہوب کرنا۔

ایک پاؤں رکاب میں رہنا (معاورہ) سفر کے لیے مستعد رہنا۔

ایک پاؤں سے کھڑا رہنا (معاورہ) بڑی مستعدی سے خدمت کے لیے حاضر رہنا۔
ایک پاؤں نہیں ایک کہیں۔ ایک جگہ (تیا) نہیں ہے۔

ایک پاؤں اندر ڈھکیں میں ایک پاؤں باہر۔ (معاورہ) لگانا اندر باہر آنا جانا۔

ایک پٹا۔ ایک پاٹ کا جس کی چوڑائی میں جوڑ نہ ہو۔

ایک پر ایک۔ اوپر تکیے۔ لگانا رزنا۔

ایک پر ایک کرنا (معاورہ) اوپر تکیے کرنا۔ کڑتے سے منوجہ ہونا۔ ٹوٹ کر کرنا۔ ہاتھوں ہاتھ لینا
ایک پر بیٹھ رہنا۔ (معاورہ) ایک منوجہ یا ایک آشنا پر قناعت کرنا۔

ایک پر ہر سو علاج۔ [بٹل] پر ہر علاج سے بہتر ہے۔

ایک پڑا لوٹے دوسرے کے نیچے چرکھی دے۔ [بٹل] ایک شخص کسی لذت کا نتیجہ
بھکتے رہا ہوا اور دوسرا قناعت اندیشی سے اس سے اعلیٰ تر کی خواہش کرے۔

ایک پل میں (مقولہ) ایک لحظہ میں۔ بہت جلد۔ فوراً۔

ایک پتھر دو کاج [بٹل] ایک تیر میں دو کام انجام پانا۔

ایک پیٹ کے۔ حقیقی جانی ہیں۔

ایک پیچا (۱) ایک پیچ کا جس میں ایک پیچ یا انہیں ہو (۲) ایک قسم کی بگڑی۔
ایک تارا دیکھ کے اڑی دیکھنا (معاورہ) خوردنوں کا خیال ہے کہ ایک تارا دیکھنا

خس ہے۔ اس لیے ایک تارا دیکھ کر اڑی دیکھ لیا کرتی ہیں تاکہ خوشن کا اثر کم جائے۔
ایک ترکش کے تیر ہیں۔ [بٹل] ایک آدھے کے تیر ہیں۔ آدھ بیٹے والا کوئی

نہیں۔ سب دکھ دینے والے ہیں۔

ایک تل بھر۔ بہت ذرا سا۔ خضبت سا۔

ایک تم کیا ہو۔ ایک تم پر ہی موقوف نہیں ہے۔

ایک تندرستی ہزار نعمت۔ [بٹل] تندرستی سب نعمتوں سے بہتر ہے۔

ایک تنکا نہیں چھوڑنا۔ (معاورہ) ایک تنکا نہیں چھوڑنا۔ سب کچھ اٹھارے گیا۔

ایک تنکے کا احسان نہ لینا (معاورہ) نہایت سخی اور صابر ہونا کسی کا سہارا نہ ڈھونڈنا۔

ایک ڈرد و طرف ہوتا ہے۔ دو مخالف شخصوں میں دشمنی کا خوف طرفین کو ہونے لگتا ہے۔ ایک ڈرے تو سب سمجھا میں سب ڈرے تو کوئی سمجھائے۔ [مثل] ایک شخص خطا پر ہونا اور لوگ سمجھا کر اس کو راہ پر لاسکتے ہیں مگر جب سب کے سب عقل کے دشمن ہوں۔ ان کی اصلاح کیجئے ہو۔

ایک (ذات) راس۔ ایک جنس۔ ایک قسم۔

ایک ذات کرنا۔ حل کرنا۔ باہم خوب ملا دینا۔

ایک رستی میں بندھنا۔ (معاورہ) بہت سے آدمیوں کا ایک ہی جرم میں ملوث ہونا۔ (۲) ایک رستے ہونا۔ ہم خیال ہونا۔

ایک رنگ آتا ہے ایک جاتا ہے (معاورہ) خوف یا صدمے سے چہرے کا رنگ فق ہے۔ مہنہ پر ہوا مٹیاں چھٹ رہی ہیں۔

ایک رنگ پر نہ رہنا۔ (معاورہ) ایک حالت پر نہ رہنا۔ تغیر ہونا رہنا۔ ایک رنگ میں ہیں۔ ایک حالت پر جمے ہوئے ہیں۔

ایک زبان میں متفق اللفظ۔ مہربان۔ ایک بات۔ ہم آہنگ۔

ایک زبان رکھنا (معاورہ) بات کا پکا ہونا جو کتنا سوکرنا۔ قول و قرار بنا ہونا۔

ایک زمانہ۔ تمام عالم۔ ساری دنیا۔

ایک سا۔ ایک ساں۔ برابر۔ یکساں۔

ایک ساتھ۔ ساتھ ساتھ۔

ایک سال گزرنے میں سو ساٹھ دن ہیں۔ بدلہ لینے کو سال بھر پڑا ہے کبھی نہ کبھی موقع مل ہی جائے گا۔

ایک سا پچھے کے ڈھلے ہیں۔ سب ایک ہی سے ہیں۔ وضع قطع میں بال برابر فرق نہیں ہم شکل ہیں۔

ایک سانس میں کچھ دوسری سانس میں کچھ۔ ابھی جو کچھ کہا تھا اس کے خلاف کہنے لگنا۔

ایک ٹھنڈا۔ وہ شخص جو ایک دم کے اس میں کبھی نہ کرے۔ بات کا پکا۔

ایک ہزار روٹا۔ ایک جان سو بچاں۔ ایک دم کے کچھ ہزاروں جھکے۔

ایک شور مچانا بھارت نہیں چھوڑ سکتا۔ [مثل] ایک چنا لیا بھارت چھوڑے گا۔

ایک سی۔ یکساں۔ ایک ہی طرح کی۔ ایک جیسی۔

ایک سے ایک۔ بہتر سے بہتر۔

ایک سے ایک اعلیٰ اعلیٰ سمحان رتی الا اعلیٰ۔ [مثل] اس جگہ طرز سے کہتے ہیں جہاں بدی اور شرارتیں ایک سے ایک بڑھا ہوا ہو۔

ایک سے دن نہ رہنا۔ (معاورہ) ایک حالت پر نہ رہنا۔ زمانہ کا انقلاب۔

ایک سے دو پھلے (منقولہ) ایک سے دو ہتر نہ تہاں سے کسی کا ساتھ رہنا اچھا۔

ایک سے لے ایک کو جسے [مثل] غدا کسی کو غریب اور کسی کو امیر بنا دیتا ہے۔

ایک سے ہزار رنگ۔ ایک سے لاکھ رنگ۔ بہتات اور قدرت کی جگہ کہتے ہیں ایک سے ہزار ہونا۔ فقیر سے بہت ہونا۔

ایک سے ہونا (معاورہ) ہم شکل ہونا۔ ایک جیسے ہونا۔ ہم رستے ہونا۔

ایک شیرازا ہے سولو طراں یا یکدہ ٹھکانے میں۔ [مثل] بہت والی اپنی کمان سے بہت سے کمزوروں کی پرورش کرتا ہے۔

ایک صورت سے۔ (۱) ایک طرح سے (۲) یکساں حالت سے۔

ایک طرح۔ ایک طرح پر۔ ایک حالت سے۔ ایک وضع سے۔

ایک طرح پر گزرتا۔ (معاورہ) یکساں گزرتا۔ ایک حالت پر بسر ہونا۔

ایک مجال چلنا۔ یکساں رہنا۔ ایک انداز پر زندگی بسر کرنا۔

ایک چپ لاکھ ملاطقی ہے چپ رہ کر بہت سی آفتوں سے نجات مل جاتی ہے۔

ایک چپ ہزار گھڑ (معاورہ) خاموش رہنے میں بڑا سکھ ہے۔

ایک چوڑب مرے کو بہت ہے بیجا کی حرکت پر عبرت دلانے کو کہتے ہیں۔

ایک چنا کیا بھارت چھوڑے گا۔ (معاورہ) وہ کام جو بہت سے آدمیوں کے کرنے کا ہو۔ اسے لائق یا بہت انسان بھی کہلا نہیں کر سکتا۔

ایک چنے کی دودا لیں ہیں۔ (معاورہ) نہایت متفق ہیں (۲) بالکل ہم شکل ہیں۔

ایک چھوڑ دو دو۔ اس جگہ کہتے ہیں جہاں ایک کی جگہ دو ہوں۔

ایک چھینکے ایک ناک کاٹے [مثل] آدھا کام کوئی کرے اور آدھا کام کوئی اور انجام دے۔

ایک صحیح زمین ایک جرخ آسمان۔ بے انتہا جینا چلانا۔

ایک حال پر بسر ہونا۔ ایک حال میں گزرتا۔ یکساں بسر ہونا۔

ایک حسن آدمی ہزار حسن کپڑا۔ لاکھ حسن زیورہ کو گود حسن سفر۔ کپڑے سے عورت کا حسن زیادہ ہو جاتا ہے اور زیورہ اور ناز و نخرے سے اور بھی بڑھ جاتا ہے۔

ایک حمام میں سب ننگے۔ [مثل] جتنے میں سب کا ایک ہی رنگ ہے کون کس کو بڑا کہے۔ سب ایک ہی حال میں گزرتا رہیں۔

ایک خطا دو خطا تیسری خطا ما در خطا۔ [مثل] دو ایک مرتبہ چوک ہو جانا

منفقتاے بشریت ہے مگر ایسا بار کی خطا کہتہ ہیں اور شرارت کی دلیں ہے۔

ایک درندہ ہزار در کھلے [مثل] ایک در بیتی تم ہونے پر خدا اور بہت سے ذلیف پیدا کر دیتا ہے۔

ایک دل یا دل میں ایک چوکیدار میں [مثل] یعنی ادھر بھی خیال لگا ہوا ہے اور ادھر بھی کام کیوں کر ٹھکانے سے ہو۔

ایک دل یہ کہتا ہے۔ ایک خیال یہ آتا ہے۔

ایک دم۔ بلا توقف۔ برابر۔ نگانہ۔ متواثر۔ فوراً۔

ایک دم آیا نہ آیا۔ ایک دم کا بھر دسا نہیں۔ (معاورہ) زندگی کا کچھ اعدا نہیں۔

ایک دم کا دماغ ہے۔ [مثل] ایک ذات کے باعث رفتی اور شان و شوکت ہے زندگی کے لیے سارے کچھ ہے۔

ایک دم ہزار دم (معاورہ) جاں نیک مریض کے لیے ڈھارس کے طور پر کہتے ہیں۔

یعنی جب تک سانس باقی ہے بڑی امید ہے۔

ایک دن خدا کو منہ دکھانا ہے۔ (معاورہ) آخر عمر کے بعد خدا کے سامنے پیش ہونا ہے۔

ایک دن کا ہمان دودن کا ہمان تیسرے دن کا بلاتے ہمان [مثل] ایک دن ہمان کی تواضع ہو سکتی ہے۔ پھر وبال معلوم ہوتا ہے۔

ایک دن کا ہمان گلاب کا پھول دوسرے دن کا ہمان کنول کا پھول

تیسرے دن کا ہمان گیا گھر کیوں بھگول [مثل] ہمان پہلے دن بہت عزیز۔ دوسرے دن اس سے کم عزیز۔ تیسرے دن بل سے بیزار ہو جاتا ہے ہمان کی خلق چند روزی خوب ہوتی ہے۔

ایک دن کھوٹا پیسا بھی کام آتا ہے [مثل] ناقص چیز بھی کام دے جاتی ہے۔

ایک دو۔ فقیر سے۔ چند۔

ایک دو بول۔ (۱) معاورہ) نکاح میں ایجاب و قبول۔

ایک دہی نہیں چھوڑی۔ (معاورہ) کچھ نہیں چھوڑا۔ سب لوٹ لے گیا۔

ایک جسے گا دس پائے گا خیرات کرنے والے کو ایک کا دس گنا ثواب ملے گا۔

ایک ڈال۔ (۱) ایک میل کا۔ ایک طرح کا۔ ایک ہی ٹکڑے کا بنا ہوا۔

ایک طرح کا۔ ایک تم کا۔ ایک جیسا۔

ایک طرف کا بازار بند ہے۔ ایک طرف کی دنیا غائب ہے۔ (معاورہ)
ایک آنکھ نرا در ہے۔ کا نا ہے۔

ایک طرف ہو جاؤ۔ کنارے ہو جاؤ کسی ایک کے شریک ہو جاؤ (۲) راستہ چھوڑ دو۔
ایک عالم۔ سارا جہان۔ تمام دنیا۔

ایک عالم ہے۔ (معاورہ) عجب بہار ہے طرہ کیفیت ہے۔ نر لاجوں ہے
ایک عمر۔ تمام عمر۔ عرصہ دراز۔ جگ۔

ایک غریب مارا تھا نوں چربی مکلی (مثل) جب کوئی شخص اپنی غریبی کا اظہار
کرتے اور وہ دراصل غریب نہ ہو تو اس موقع پر یہ جملہ طرز سے کہتے ہیں۔

ایک فریاد سوتی ہے ایک جان سواندیشے (مثل) ایک آدمی کے لیے کیا کیا
مصیبتیں ہوتی ہیں۔

ایک کلم۔ یک تخت۔ فوراً۔ بالکل۔ برابر۔ ایک زبان۔

ایک کا منہ شکر سے بھرا جا سکتا ہے سوس کا منہ خاک سے بھی نہیں بھرا جاتا۔
[مثل] ایک شخص کی کار بر آری تو ہر طرح ہو سکتی ہے مگر بہت لوگوں کی تھوڑی تھوڑی
حاجت روانی دشوار ہوتی ہے۔

ایک کان بہر ایک گونگا کر لینا۔ (معاورہ) کسی طرف سے بالکل بے خبر ہو جانا۔
مطلقاً التفات نہ کرنا۔

ایک کا تے میں تولنا۔ (معاورہ) کیسا وزن کرنا۔

ایک کا ہو رہنا (معاورہ) ایک کے سوا دوسرے کی طرف مائل نہ ہونا۔

ایک جچی گھڑی۔ محمد بھیر۔ بہت مختصر مدت۔

ایک کرے دس بھریں (معاورہ) ایک شخص خفا کرے اور اس کا خمیازہ سب کو اٹھانا پڑے۔

ایک کتا سے ہونا (معاورہ) ایک طرف ہو جانا کتا سے ہو جانا۔ اگ ہو جانا۔

ایک کو ایک کھائے جاتا ہے۔ (مثل) ایک دوسرے سے دشمنی حد کرنا
ہے۔ ایک دوسرے سے جلتا ہے۔

ایک کو پانی ایک کو بیچ (مثل) نا انصافی۔ نامصنعتی۔ جانبداری۔

ایک کو دسے زنتہ عالی ایک کو دسے کھر پاجالی (مثل) خدا کسی کو امیر اور
کسی کو غریب بنا دیتا ہے۔

ایک کوڑی کی بھی آمد نہیں۔ پھر ہی آمدنی نہیں۔

ایک کو سانی ایک کو بدھان (مثل) ہر کسی سے وعدہ۔ ہر ایک سے قرار۔
سب کو امید پر نکتا سے رکھنا۔

ایک کھائے ملید ایک کھائے ٹھس (مثل) اپنا اپنا نصیب ہے۔ کوئی عیش
کرت کوئی دکھ بھرے۔

ایک کہو گے تو دس سونگے (معاورہ) فٹوڑی سی بدزبانی کر کے ہمت کچھ نہ پناٹے گا۔
ایک کھیل ہونا۔ (معاورہ) بہت معمولی بات ہونا۔

ایک کھیل ہے۔ (معاورہ) بہت آسان ہے۔

ایک کسے نہ چار سنے۔ (مثل) نہ کسی کو برا کہو نہ خود برا سونو۔

ایک کی ایک سے کتنا۔ لگا بیجا لگنا۔

ایک کی ایک سے ہونا۔ اتفاق نہ ہونا۔ باہم ٹکرا ہونا۔
ایک کی دوا دو دو۔ ایک کی دوا دو دو کی دوا چار (مثل) تخیل
تعلیٰ کو کثیر تعدا مغلوب کر لیتی ہے۔

ایک کی (دس دس) سوسو سٹانا۔ (معاورہ) ذرا سی بات پر بہت برا بھلا کہنا
جو سینا آدیا جائے۔ اس میں مبالغہ کر کے پہنچانا۔

ایک گال ہنسننا ایک گال رونا۔ (معاورہ) گھڑی ہنسننا اور گھڑی رونا ہنسنوں مزاج
ایک گرو کے بالکے ہیں۔ ایک آدے کے برتن ہیں۔ ایک جیسے ہیں۔

ایک گھاٹ آنا رونا (معاورہ) سب کے ساتھ ایک ہی معاملہ رکھنا کیسا بڑا بڑا
ایک گھاٹ بائی بیٹے ہیں۔ (مثل) سب کے ساتھ کیسا انصاف ہے۔

ایک گھر نیچے تو سب گھر نیچے (مثل) شطرنج اور چومر وغیرہ کے کھیل ہر کسی میں
چال کے متعلق کہتے ہیں کہ اس گھر پر ہرہر یا کوٹ بیچ جائے تو تو یا بازی جیتے۔

ایک گھر کے دو وطننا۔ (معاورہ) نا اتفاقی ہونا۔ باہمی اتحاد نہ ہونا۔

ایک لالچی سے سب کو مالکنا۔ (معاورہ) اعلیٰ و ادنیٰ میں تیز کرنا سب کے ساتھ کیسا بڑا بڑا
ایک لکڑی کیا جلے اور کیا اچھا لاہو (مثل) اتنا آدمی کیا کر سکتا ہے۔ ایک
آدمی کچھ نہیں کر سکتا۔

ایک لوٹی کڑا ہی۔ دکھ لگا ہی جو ایک ہی تو ہے کسی ہی جو اور اس کے پیندے میں
جوڑ نہ ہو۔

ایک ماں باپ کا ہونا (معاورہ) حلالی ہونا۔ دو غلہ نہ ہونا غیرت اور غصہ دلا
کے موقع پر کہتے ہیں (۲) حقیقی بہن بھائی ہونا۔

ایک مت۔ ایک رائے۔

ایک مٹھ۔ ایک گھٹ۔ اتفاق۔ اتحاد (ق)
ایک مچھلی سارے (تالاب) میل کو کھنڈہ کرتی ہے (مثل) ایک شخص کی ناقص
سارے خاندان کو بیزنام کر دیتی ہے۔

ایک مرغی نو جگر حلال نہیں ہوتی۔ (مثل) تھوڑی سی چیز بہت سے لوگوں
میں نہیں بانٹی جا سکتی۔

ایک مشت۔ ایک مٹھا۔ ایک ہی دفعہ یک نشست۔

ایک منہ ایک زبان ہونا۔ متفق ہونا۔ ایک ہی بات کہنا۔

ایک منہ دو بات (معاورہ) منضنا د باتیں کرنا۔

ایک منہ میں ہزار بانیں کہہ جانا۔ (معاورہ) لگاتار سینکڑوں باتیں سنانا بے حسا
برا بھلا کہنا۔

ایک میان میں دو تلواریں نہیں سما سکتیں (مثل) ایک ہی چیز کے دو طباق
اور خواہش مند بھی مل کر نہیں رہ سکتے۔

ایک مٹھا۔ ایک منہ کا۔ ایک کھی۔ ایک منہ والا۔

ایک بیسے گھر آنا دوسرے رونا۔ (مثل) کچھ بڑا سامان اور کارخانہ نہیں ہے
تھوڑے سے نوکر جا کر ہیں۔

ایک میں ایک میرا بھائی تیسرا ججام نائی۔ (مثل) دیاں بولتے ہیں جہاں کوئی شخص
بہت سے آدمی ساتھ لائے اور ظاہر یہ کرے کہ بہت کم آدمی ہیں۔

ایک نار جب دوسرے کسی جیسے ایک تیسے اسی (مثل) عورت کی پارسائی
اس کے شوہر تک ہی ہے۔

ایک ناہیزا نہیں۔ سراسر انکار۔ بالکل انکار۔

ایک ٹٹ کھٹ۔ بہت شرم۔ ڈھیٹ۔

ایک نشہ دوشد (مثل) ایک کے بعد دوسری عیبی بات واقع ہونا۔
ایک نظر دیکھنا (معاورہ) ایک بار یا سرسری طور پر دیکھ لینا۔

ایمفی تھیٹر (Amphi Theatre) ایم۔ ٹی۔ تھے۔ ٹی۔ (انگ۔ ہند) (۱) گول تماشا گاہ (۲) ڈسکل (۳) اکھاڑہ (۴) وہ مددگار کھانا جو تیز زمانے میں روٹیوں نے شہرہ میں تعمیر کیا تھا اور جس میں وہ وحشی جانوروں کی لڑائیاں دیکھا کرتے تھے۔

ایمپن (اسے۔ من) (ع۔ صفت) (۱) دائیں جانب (۲) مبارک بے وقت۔ (۳) امن دیا ہوا محفوظ [ف۔ مٹ] ایک راگ یا راگنی کا نام بشرط گایا جانے والا راگ۔ کہتے ہیں یہ راگ امیر خسرو کا ایجاد کردہ ہے۔ ایمونیا۔ (Ammonia) (اسے۔ سورن۔ یا) (انگ۔ ا۔ مذ) [چوڑے اور نونادار کا مرکب۔

ایمونیشن (Ammunition) (اسے۔ سورن۔ شن) (انگ۔ ا۔ مذ) گولہ بارود۔ سامان جنگ۔

ایمہ۔ (اسے۔ مر) (ت۔ ا۔ مذ) معافی جاگیر (۲) وہ زمین یا جاگیر جو علماء و فقہا کو بادشاہ کی طرف سے بطور انعام دی جاتی ہے۔

ایمہ (ع۔ ہند) امام کی جمع۔
ایم۔ (ا۔ مذ) محبت تنبیہ۔ اصرار اور دیکھ کر پوچھنے کے موقع پر استعمال کیا جاتا ہے۔
ایم۔ (ت۔ ی۔ ا۔ اشارہ قریب۔

ایم خازن (تمام) ہمہ آفتاب است [متشیل] یہ سارا گھر ہی روشن ہے (۲) یہ گھر کا گھر لائن ہے (۳) (دھڑا) یہ پورا گھر نالائقی ہے۔
ایم کا راز تو ایسا مردان نہیں گنند [متشیل] کیا کہتا ہے یہ کام تہیں سے ہو سکتا ہے اور مرد ہی ایسا ہی کہتے ہیں۔ کسی اہم کے انجام دینے والے سے تحسین و آفرین کے طور پر کہتے ہیں۔

ایم گل دیگر شگفت [متشیل] یہ اور گل کھلا (۲) تماشا دیکھیے۔ کوئی ہی بات واضح ہونے پر کہتے ہیں۔

ایم وائل (۱) یہ وہ (۲) حجت و دلیل جو نوجوان دہرا کرنا (۳) ہر کس دن کس این وائل کرنا۔ (معاورہ) بلس چھانٹنا۔ حجت کرنا۔ بحث کرنا۔

ایم ہم اندر عاشقی بالاسے گنہائے دیگر [متشیل] (۱) حجت میں دوسرے غول پر ایک یہ بھی غم ہے (۲) مصیبت پر مصیبت آنے کے موقع پر کہتے ہیں

ایم ہم ستر شتر است [متشیل] (۱) یہ بھی اونٹ کا بچہ ہے (۲) یہ بھی اسی گزہ سے ہے۔ یہ بھی اسی قبیل کا ہے۔

ایم ہم سر علم۔ [متشیل] بہت ہی مصیبتوں میں ایک اور بھی ہے۔ ایک چور درزی کو کسی مولوی صاحب نے سمجھایا کہ قیامت میں تیرے چولے چوٹے کپڑوں کا بھنڈا بنا کر اس کے نیچے چھ کر لیا جائے گا۔ اس سے تمام میدان حشر میں تیری رسوائی ہوگی۔ درزی بہت ڈرا اور آئندہ کے لئے توبہ کر لی مگر ایک مرتبہ ایک نہایت قیمتی کپڑے پر نہایت بدل کئی دویز تک سوجھا دیا۔ آخر یہ کہہ کر کڑا چڑا لیا۔ اس ہم بالائے علم۔

ایمپٹ۔ [ا۔ مٹ] منی کے نیچے یا پکے ہونے ٹوٹے جس سے دیوار بنائی جاتی ہے تختہ (۲) سونے اور چاندی کے بڑے بڑے ٹلے (۳) تاش کا ایک رنگ جو مخرج رنگ کا ہوتا ہے اور اس پر مخرج شکل کا نشان ہوتا ہے۔ ایمپٹ آگٹا۔ (معاورہ) جب کسی سے عداوت ہوتی ہے تو سمجھیں اس کا نام لے کر ایمپٹ آگٹ کر کے رکھ دیتے ہیں عورتوں کا خیال ہے کہ اس گل سے

ایمان داری۔ صداقت۔ راست بازی۔ دیانت داری۔
ایمان داری اٹھنا۔ راست بازی اور دیانت داری کا جانتے رہنا۔
ایمان داران ڈول ہو جانا۔ نیت میں فرق آجانا۔
ایمان ساتھ جانا ہے (معاورہ) ایمان ہی عاقبت میں نفع پہنچاتا ہے۔
ایمان سے پوچھو۔ کہنا۔ خدا گنتی کہنا۔ پچ پچ کہنا۔
ایمان سے پوچھو۔ (معاورہ) حق یہ ہے۔ انصاف تو یہ ہے۔
ایمان کا سودا ہونا۔ (معاورہ) ایمان داری کا معاملہ ہونا۔
ایمان کا پلنا۔ (معاورہ) خدا کا خوف ہے۔
ایمان کھونا۔ (معاورہ) مہٹ دھری کرنا۔

ایمان کی۔ حق۔ سچی بات۔
ایمان کی تو یہ ہے (معاورہ) پچ بات تو یہ ہے۔ حق بات تو یہ ہے۔
ایمان کی کہنا۔ (معاورہ) پچ بات کہنا۔ خدا گنتی کہنا۔
ایمان (لانا) لے آنا۔ (معاورہ) (۱) یقین کرنا۔ ماننا۔ تسلیم کرنا (۲) بھروسہ کرنا۔
اعتبار کرنا (۳) خدا اور مذہب پر یقین لانا۔
ایمان گنتی کہنا۔ (۱) معاورہ) حق بات کہنا۔ کسی کی طرف داری نہ کرنا۔
ایمان میں آنا۔ (معاورہ) مناسبت ہونا انصاف سے کہنا۔ اندازہ میں آنا۔
ایمان میں فرق آنا۔ (معاورہ) یقینیت ہونا۔ اعتقاد ڈھنگلانا۔ نیت بگڑنا۔
ایمان ہونا۔ (معاورہ) یقین ہونا۔ اعتقاد ہونا۔
ایمان ہے۔ کمال اعتقاد ہے۔ پورا یقین ہے۔
ایمان ہے تو سب کچھ۔ ایمان سب سے بڑی دولت ہے۔

ایم۔ آر۔ اے۔ ایس (Member of Royal Academy of Science) ممبر آف رائل اکیڈمی آف سائنس کا مخفف [انگ] سائنس کی شاہی مجلس کا رکن۔

ایم۔ او۔ ایل (M.O.L.) Master of Oriental Languages [انگ] ماسٹرف آف اوریینٹل لینگویجس کا مخفف مشرقی زبانوں کی اعلیٰ ڈگری

ایم۔ اے (M.A.) Master of Arts [انگ] ماسٹرف آف آرٹس کا مخفف۔ تعلیم کی ایک اعلیٰ ڈگری۔

ایم۔ ایس۔ سی (M.Sc.) [انگ] Master of Science ماسٹرف سائنس کا مخفف۔

ایم۔ این۔ اے۔ پاکستان کی مرکزی مجلس قانون ساز کا ممبر۔ انگریزی الفاظ (Member National Assembly) مخفف۔

ایم۔ ایل۔ اے۔ (M.L.A.) [انگ] Member of Legislative Assembly ممبر آف لیجسلیٹیو اسمبلی کا مخفف۔ قانون ساز کونسل کا رکن۔

ایمبولینس (Ambulance) [انگ] (مذ) سفری شفا خانہ۔ جنگی ہسپتال۔ زخمیوں اور بیماروں کو لے جانے والی گاڑی۔

ایم۔ بی۔ ایس۔ (M.B.B.S.) [انگ] ڈاکٹری کی یونیورسٹی کی ڈگری۔

ایم۔ پی۔ (M.P.) [انگ] Member of Parliament پارلیمنٹ کا ممبر

ایم۔ پی۔ اے۔ (M.P.A.) [انگ] Member Provincial Assembly کے پیشہ حروف سے بنی ہوئی اصطلاح

ایم۔ ڈی۔ (M.D.) [انگ] ڈاکٹری کی اعلیٰ ڈگری۔

دشمن ملاک ہو جاتا ہے۔

اینٹ سے اینٹ (بجا دینا) بچانا (مخاورہ) مسمار کر دینا۔ ڈھا دینا۔ برباد کرنا۔ کرنا۔
اینٹ سے اینٹ بچ جانا۔ مسمار اور برباد ہو جانا۔

اینٹ کا گھر مٹی کا در۔ بے جوڑ بات۔

اینٹ کا گھر مٹی کو دینا۔ دولت کو خاک میں ملادینا۔ رو بہر برباد کر دینا۔

اینٹ کا گھر مٹی ہو گیا۔ کیا کر گیا سب خاک میں مل گیا۔ گھر تباہ ہو گیا۔

اینٹ کے لیے مسجد ڈھانا۔ چھوٹے سے فائدے کے لیے بڑا نقصان کرنا۔

اینٹا (ریں۔ ٹا) [۱-۵-۱۰] بڑی اینٹ۔

اینٹھ۔ [۱-۵-۱۰] غور۔ بل۔ اگر۔ کجمر (۲) بل۔ پیچ۔ مروڑ۔

اینٹھ جانا (مخاورہ) اکڑ جانا۔ ناراض ہو جانا۔

اینٹھ رکھنا (مخاورہ) بل رکھنا (۲) دبا رکھنا۔ دبا لینا۔ ہٹنا لینا۔

اینٹھ کر چلنا (مخاورہ) اکڑ کر چلنا۔ غور سے چلنا۔ انزاک چلنا۔

اینٹھ لینا۔ (مخاورہ) چھین لینا۔ زبردستی لینا۔

اینٹھا۔ (ریں۔ ٹھا) [۱-۵-۱۰] مذ۔ سی بیٹے کا آلہ۔

اینٹھن۔ (ریں۔ ٹھن) [۱-۵-۱۰] مذ۔ بیچ۔ مروڑ۔ ہل۔ کھینچنا۔ تشنج۔

اینٹھنا۔ (اینٹھ۔ ٹنا) [۱-۵-۱۰] مذ۔ بل دینا۔ مروڑنا (۲) روکھنا۔ آزرہ ہونا۔

(۳) دھوکہ دے کر لینا (۳) اکڑ دکھانا۔ گھنڈ کرنا۔

اینٹھو۔ (ریں۔ ٹھو) [۱-۵-۱۰] مذ۔ اکڑ باز۔ مغرور۔ گھنڈی۔ ٹڑا۔

اینٹھوانا۔ (ریں۔ ٹھوانا) [۱-۵-۱۰] مذ۔ مروڑنے کا کام دوسرے سے کر دانا۔

اینٹھ۔ [۱-۵-۱۰] مذ۔ [۱-۵-۱۰] کشش (۲) پھیلاؤ۔ دباؤ (۳) ڈیرھا پن۔

اینٹھ پیچ۔ (۱) اُجھاؤ (۲) مکر۔ فریب۔

اینٹھ دینا۔ (مخاورہ) سُولی دینا۔ پھانسی چڑھانا۔

اینٹھا۔ (ریں۔ جا) [۱-۵-۱۰] مذ۔ کھینچا ہوا۔ نٹا ہوا۔

اینٹھانا۔ جس کی پتی تاکنے میں دوسری طرف کو بھیجتی ہے۔ بھیدکا۔

اینٹھانی۔ کھینچا۔ کھینچی۔ کھینچا۔ کھینچا۔ کھینچا۔

اینٹھن۔ (ریں۔ چن) [۱-۵-۱۰] مذ۔ کش۔ کش۔ کھینچا۔

اینٹھن چھوڑ کھسیٹن میں پڑے (عو۔ منش) اُلٹی بلا گلے پڑی۔ ایک

آنت سے دوسری بڑھ کر تابت ہوئی۔

اینٹھن۔ (ریں۔ ڈھن) [۱-۵-۱۰] مذ۔ کٹڑی۔ کٹڑے وغیرہ جلانے کی چیزیں۔

اینٹھن ہو جانا۔ (مخاورہ) جلائے کے قابل ہو جانا۔ ناکارہ ہو جانا۔

اینٹھ۔ [۱-۵-۱۰] مذ۔ [۱-۵-۱۰] غور۔ ٹھسک (۲) کٹھا۔ اُدھولا (۳) بھنور۔

اینٹھو جانا ہونا۔ نکتا ہو جانا۔ کام کا نہ رہنا۔

اینٹھا۔ (ریں۔ ڈا) [۱-۵-۱۰] مذ۔ [۱-۵-۱۰] مذ۔ تھیندہ۔ اندازہ۔

اینٹھا اینٹھ پھرنا۔ اترانے پھرنا۔ اٹھنا اینٹھا پھرنا۔

اینٹھا اینٹھا۔ اٹھا سیدھا۔ اڑا ترچھا (۲) بے ہودہ۔ ناشائستہ۔

اینٹھٹے ہوئے پھرنا۔ (مخاورہ) (اینٹھ۔ تے۔ ہوئے۔ پھرنا)

اٹھلانے ہوئے پھرنایا گھومنا۔

اینٹھٹا۔ (اینٹھٹا) [۱-۵-۱۰] مذ۔ [۱-۵-۱۰] مذ۔ اگڑانا۔ اگڑائی لینا (۳) انزانا۔

اینٹھوا۔ (اینٹھوا۔ اینٹھوا۔ دی) [۱-۵-۱۰] مذ۔ دوہرا مٹ [

موتج وغیرہ کی پتی ہوئی چھوٹی گول گدی جسے بوجھا اٹھانے وقت سر پر

رکھ لیتے ہیں۔

اینٹھی اینٹھی۔ (ریں۔ ڈی۔ ڈی۔ ڈی) [۱-۵-۱۰] مذ۔ [۱-۵-۱۰] مذ۔ اڑھی ترچھی (۲)

ناشائستہ۔ سخت۔ دست۔ بڑی بھلی۔

اینٹھوانڈین (Anglo Indian) [۱-۵-۱۰] مذ۔ [۱-۵-۱۰] مذ۔ [۱-۵-۱۰] مذ۔

ہندوستان میں رہنے والا انگریز۔

اینٹھو عربک۔ (Anglo Arabic) انگریزی عربی۔

اینٹھو ورنیکولر (Anglo Vernacular) [۱-۵-۱۰] مذ۔ [۱-۵-۱۰] مذ۔ [۱-۵-۱۰] مذ۔

دیسی اور انگریزی۔

ایوارڈ۔ (۱-۵-۱۰) [۱-۵-۱۰] مذ۔ [۱-۵-۱۰] مذ۔ [۱-۵-۱۰] مذ۔

جنگلوں میں بناتے ہیں۔

ایوارڈ (Award) [۱-۵-۱۰] مذ۔ [۱-۵-۱۰] مذ۔ [۱-۵-۱۰] مذ۔

ایوان تجارت۔ (۲) تادان جبرمانہ۔ مزاد وغیرہ (جو عدالت سے دلائی جاتے) صلہ۔ اعلیٰ

ایوان۔ (۱-۵-۱۰) [۱-۵-۱۰] مذ۔ [۱-۵-۱۰] مذ۔ [۱-۵-۱۰] مذ۔

ایوان ہائے پارلیمنٹ۔ وہ مکان جہاں عوام کے نمائندے بیٹھ کر

قانون بناتے ہیں۔

ایوب۔ [۱-۵-۱۰] مذ۔ [۱-۵-۱۰] مذ۔ [۱-۵-۱۰] مذ۔

ایورسٹ۔ کوہ ہمالیہ کی بلند ترین چوٹی جو ۲۹۰۰۲ ہزار فٹ اونچی ہے۔

ایہام (ای۔ ام) [۱-۵-۱۰] مذ۔ [۱-۵-۱۰] مذ۔ [۱-۵-۱۰] مذ۔

صنعت جس میں شاعر اپنے کلام میں ایک ایسا لفظ لائے جس کے دو معنی ہوں۔

ایک اس مقام کے قریب دوسرے بعید لیکن شاعر بعید سے مراد ہے۔

اے ہے۔ [کلرنا سف] [۱-۵-۱۰] مذ۔ [۱-۵-۱۰] مذ۔

ب

ب ابے (موت) اردو فارسی اور عربی کا دوسرا اور ہندی کا تیسواں حرف۔ حساب ابجد میں اس کے دو عدد مقرر ہیں۔ یہ حرف فارسی ترکیبوں میں مندرجہ ذیل معانی دیتا ہے اور ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے۔ ۱۱۱ جیسے لبر ختم، بایں ریش، دوش (۲) طرف جیسے ذوق بقلہ، روبراہ (۳) آسنے سامنے جیسے روبرو (۴) صلہ اتصال جیسے ماہ بجاہ۔ روز بروز۔ در بدر۔ دم بدم (۵) اسم جیسے بنجا۔ برت کعبہ (۶) مطابق جیسے بقول تھے (۷) وسیلہ توکل جیسے یارب برسات رسول انقلابین (۸) میں جیسے خاکم بد عالم (۹) بعض جگہ یہ حرف زائد ہوتا اور اسے ہائے زائد کہتے ہیں۔ جیسے بجز۔ بغیر۔ بکے وغیرہ عربی ترکیبوں میں ب ہمیشہ مکسور ہوتی ہے۔ اور اس کے حسب ذیل معانی ہوتے ہیں۔ ۱۱۱ سے۔ ساخہ جیسے بالارادہ۔ بالواسطہ (۲) قسم جیسے واللہ باللہ (۳) ویلے سے۔ جیسے بحرمۃ البئی؟ بعض اوقات حرف ذیل سے بدل جاتا ہے جیسے اپ (بادشاہ، پادشاہ، بنشا، پتاشا، اج، بھٹنا، بھٹنا (د) کب اک۔ اگ، ابولا، بگولا۔ سابودانہ، ساگودانہ (ل) ٹیا۔ ٹیلا (م) انیب۔ نیمبر، میو (و) سیب۔ سیو، بابا۔ باوا۔

نخوبی۔ اچھی طرح۔ پوری طرح۔ عمدگی سے۔
 بجز۔ خیریت کے ساتھ۔ اچھی طرح۔
 بجز انجام ۱۱۔ محاورہ اچھا نہیں نکلا۔
 بجز وعائیت۔ خیریت سے۔ اچھی طرح۔
 بجز عاقبت۔ حد سے زیادہ۔ انتہا تک۔
 بجز جہا۔ بہت زیادہ۔ کہیں زیادہ۔
 بدست۔ ہاتھ میں۔ ذریعہ۔
 بدستور۔ حسب سابق۔ دستور کے مطابق۔ فائدے کے موافق۔ جوں کا توں۔
 بدقیات۔ کئی دفعہ۔ بار بار۔ کئی مرتبہ۔
 بدوقت۔ مشکل سے۔ دشواری سے۔
 بدولت۔ سبب سے۔ ذریعے سے۔ طفیل سے۔ اقبال سے (مجازاً) اسرا۔
 بدگوں۔ بغیر بجز۔ سوا۔
 بدیں۔ بایں۔ اس سے۔
 بدیں حال۔ اس حال میں۔
 بدیں سبب۔ اس سبب سے۔ اس وجہ سے۔
 بدیں غرض۔ اس غرض سے۔ اس مقصد کے لیے۔
 بدیں نظر۔ اس خیال سے۔ اس پر نظر ڈالنے ہوتے۔
 بذات خود۔ خود بخود۔ آپ ہی۔ اپنے دم سے۔
 بزب کعبہ (قسم) کعبہ کے رب کی قسم۔ خدا کی قسم۔
 بزنگ (۱) مذا۔ شکل۔ مانند۔
 بزوشے۔ منہ پر۔ سامنے (۲) بمطابق۔ بلحاظ۔
 بزور۔ زور سے۔ طاقت سے۔ زبردستی۔ جبراً۔ حکماً۔
 بسبب۔ سبب سے۔ وجہ سے۔ اس کارن۔
 بسفر وقتت مبارک باو، سلامت ردی و باز آئی۔ مسافر کو نصرت کرتے وقت و عکے طور پر کہتے ہیں۔ یعنی تمہارا سفر پر جانا مبارک ہو۔ سلامتی سے جاؤ اور پھر (سلامتی) سے واپس آؤ۔
 بسر و چشم۔ سر آنکھوں پر بڑی خوشی سے۔ پوری رضا مندی سے۔
 بشرح صدر (۱) جو کچھ اوپر لکھا ہے۔ وہی یہاں بھی لکھے۔ ایضاً (۲) دل پائینے کی صفائی سے۔

ب ابلفح الف حرف جبر (۱۱) ساتھ۔ مع (۲) لیے۔ واسطے (۳) از (۴) قسم (۵) مطابق (۶) میں۔ اندر۔ (۷) پر۔ (۸) مقابل کسی لفظ کے شروع آتی ہے جب تہائی آتی ہے تو اس کا اطلاق ہوتا ہے)۔
 باسانی۔ آسانی سے۔ سہولت سے۔ بغیر وقت کے۔
 باوا بھٹنا۔ اچھی آواز سے۔
 باجرا (اقانون) کسی حکم کے نافذ کرنے سے کسی کے عمل لانے سے۔
 باجلاس۔ اجلاس میں بکھری میں پیشی میں۔
 باسٹنا۔ چھوڑنے کے۔ اگ کر کے۔ جدا کر کے۔
 بافراط۔ کثرت سے۔ بہت سے۔ وافر۔
 بایں۔ اس کے ساتھ۔
 بایں پیش و فرس۔ یہ ڈاڑھی اور بیڑہ اور ایسی حرکتیں۔ شکل مومنوں کی اور کمزورت کا فروں کے۔
 بایں ہمہ۔ ان تمام باتوں کے باوجود۔
 بایں سببت گذاری۔ اس دفع سے۔
 براضی ظفرین۔ فریقین کی رضا مندی سے۔
 ببنگ۔ عاجز۔ بجز۔ بجز۔
 ببنگ آنا۔ ببنگ ہونا (محاورہ) (۱) اڑ جانا۔ اصرار کرنا۔ (۲) کوشش کرنا۔
 ببنگ (۱) کوشش کرنے والا۔ (۲) خد کرنے والا۔ مقصر۔
 ببنگ ہونا (محاورہ) (۱) اڑ جانا۔ اصرار کرنا۔ (۲) کوشش کرنا۔
 بجز۔ سوا۔ مگر۔ بغیر۔
 بجزت۔ وجہ سے۔ بسبب۔ بوجہ۔
 بچشم۔ سر آنکھوں پر۔ بسر و چشم۔
 ببنگ۔ بجد کے کہ۔ اس حد تک۔ یہاں تک۔
 بحساب۔ اس حساب سے۔
 بخصور۔ پیشی میں۔ روبرو۔ سامنے۔
 برحق۔ سچ میں۔ موافقت میں۔ معاملہ میں۔
 بکل۔ حکم سے۔ ارشاد سے۔
 بخدا۔ خدا کی قسم۔
 بخلاف۔ برعکس۔ برخلاف۔

نشر طیکہ۔ اس شرط پر
 بشکل ان صورت سے۔ انداز سے۔
 بشمول۔ شامل کر کے۔ ساتھ سے۔
 بصدقہ۔ عدد اکثرث کے اظہار کے لیے۔
 بصراحت۔ وضاحت سے۔ کلمہ کھلا صاف طور پر۔
 بصورت۔ صورت میں حال میں۔ وجہ سے۔
 بصورت دیگر۔ اگر کوئی دوسری صورت پیش آئی۔ اس کے خلاف
 اگر کوئی اور حالت ظہور پذیر ہوئی۔
 بصیغہ۔ مذ میں۔ ضمن میں۔ سلسلہ میں۔
 بصیغہ دلوانی۔ دیوانی میں۔
 بصفتہ۔ جہت پر۔ ضد پر۔ مٹھ۔ اٹا ہوا۔
 بصند ہونا (محاورہ) ہٹ کرنا۔ اصرار کرنا۔ ضد کرنا۔
 بطرز۔ انداز سے۔ طریقے سے۔
 بطرف۔ جہت میں۔ سمت میں۔
 بطریق۔ طریقہ سے۔ انداز سے۔
 بطور۔ طرز سے۔ طریقہ سے۔
 بطور خود۔ اپنی طرف سے۔ اپنے طریقے سے۔ آپ ہی آپ
 بطوع خاطر۔ رضامندی سے۔ دل کی خوشی سے۔
 بطیب خاطر۔ خوشی خوشی سے۔ رضامندی سے۔ دل کی رضامندی
 بظاہر۔ ظاہر میں۔ دیکھنے میں۔
 بغرض۔ بجائے۔ بدلے میں۔
 بغیر۔ بدون۔ بجز۔ سوا۔
 بقون خدا۔ اللہ تعالیٰ کی مدد سے۔
 بقدر ضرورت۔ ضرورت اور حاجت کے مطابق۔ جتنا کام ٹھکانے
 کے لیے ضروری ہو۔
 بقول۔ کہنے کے مطابق۔ قول کے مطابق۔
 بقول شخص سے۔ کسی کے کہنے کے مطابق۔
 بقدر حاجت۔ زندگی کی نیند میں۔ زندہ۔
 بکار۔ کام سے۔ کام کا۔
 بطالفت حیل۔ بطالفت الخلیل۔ جیلہ بہلنے سے۔ کسی اچھی تدبیر
 سے۔ بطالفت الخلیل۔ خاسی وارڈ و دواوں کا بنا یا ہوا ہے۔
 بملارج۔ درجہ بدرجہ۔
 بمراتب۔ مرتبوں کے لحاظ سے۔
 بمشکل۔ مشکل سے۔ دشواری کے ساتھ۔
 بمشکتی تیکہ تاہم۔ ارضی مشورہ۔ ان۔ مقولہ موت کی دھمکی دے
 تاکہ تپ پر راضی ہو جائے۔ زیادہ تکلیف کے مقابلے میں بخوبی
 تکلیف برداشت کرنے پر تیار ہو جائے۔
 بمنزلہ۔ بجائے۔ قائم مقام۔
 بموجب۔ مطابق۔ موافق۔
 بنا راہی قانون ابرخلاف۔ یادداشت اپیل کے عنوان میں کہتے ہیں

بناک۔ نام پر۔
 بنفس نفیس۔ خود۔ آپ۔
 بوجہ احسن۔ اچھے طریقے سے۔ خوش اسلوبی سے۔
 بہر اہم کسی۔ کوئی۔ تنہا استعمال نہیں ہوتا۔
 بہر تقدیر۔ ہر طرح سے۔ ہر حال میں۔
 بہر حال۔ ہر طور۔ بہر کیفیت۔ بہر حالت میں۔ ہر طرح پر۔ ہر طریقے سے۔
 بہر زین کہ رسید ہم آسمان پیدا است۔ بہر کار رسیدیم آسمان پیرا است
 جہاں بھی جائیں مصیبت کا سامنا ہو جاتا ہے۔
 بہر صورت۔ ہر طرح۔ ہر انداز میں۔ ہر شکل سے۔
 بہر طور۔ ہر طرح۔ ہر صورت سے۔ ہر طریقے سے۔
 بہر عنوان۔ ہر طریقے سے۔ ہر طرح سے۔
 بہر کیفیت۔ بہر حالت میں۔ ہر صورت میں۔
 بہزار۔ بہت کثرت کے لیے۔
 بہزار وقت۔ بڑی مشکل سے۔ بڑی مصیبت سے۔
 بہم (بہم) آپس میں۔ ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ۔
 بہم بہمنا (محاورہ) میسر آنا۔ جہا ہونا۔ حاصل ہونا۔
 بہم کرنا۔ محاورہ احوال کرنا۔ فہم کرنا۔
 بہینت مجموعی۔ مجموعی شکل سے۔ مکمل طور سے۔
 بیگ بینی و دو گوش۔ ایک ناک اور دو کان سے۔ تین۔ تنہا۔ بغیر کسی
 ساز و سامان کے۔ بالکل نادار۔ خالی ہاتھ۔
 بیگ کرشمہ دو کار۔ بیگ کر و فاختہ۔ ان میں اڈہرا خاندہ
 ب (بالکسر) (ع۔ حرف جڑ) (۱۱) مع۔ ساتھ۔ (۱۲) سے (۱۳) میں در
 (۱۴) قریب (۱۵) پر (۱۶) مطابق۔
 باسمہ (ب۔ اس۔ م۔ ہی) (ع۔ آغاز کلمہ) اس کے نام سے یعنی اللہ
 کے نام سے۔ نام خدا۔ خط لکھتے وقت شروع میں لکھتے ہیں۔
 بالآخر۔ آخر کار۔ آخر میں۔
 بالاتفاق۔ اتفاق کے ساتھ۔ متحد ہو کر۔ منفقہ طور پر۔
 بالاجماع۔ سب کے اتفاق سے۔ ساری جماعت کی رضامندی سے۔
 بالاجمال۔ مختصر طور پر۔ اختصار کے ساتھ۔
 بالارادہ۔ ارادے سے۔ ارادہ۔ تصدقاً
 بالاستقلال۔ مضبوطی سے۔ محکم طور پر۔ استقلال سے۔
 بعون اللہ۔ بعونہ (ع۔ اللہ تعالیٰ کی مدد سے۔
 بالتخصیص۔ خاص کر۔ خصوصیت سے (تلفظ۔ بت۔ تخصیص)
 بالتصريح۔ صراحت سے۔ صاف صاف اچھی طرح ظاہر کر کے صراحتاً
 وضاحتاً (تلفظ۔ بت۔ تصريح)
 بالتفصیل۔ تفصیل سے۔ واضح طور پر۔ کھول کر (تلفظ۔ بت۔ تفصیل)
 بالجبر۔ زبردستی۔ جبری طور پر۔ جبراً
 بالجملة۔ ساری بات کا حاصل یہ کہے۔ حاصل کلام۔
 بالخاصہ (بل۔ خاصہ) مزاج کی حالت سے۔ اپنے اثر سے۔
 بالخصوص۔ خاص کر۔ خاص طور سے۔

بالا اعلان واع اعلان کے ساتھ کھلم کھلا۔ علمانیہ
 بالانفراو (ع) جدا جدا۔ الگ الگ۔
 بالتحقیق (بت)۔ یقین بلاشک و شبہ۔ یقینی طور پر
 بعینہ۔ ہو۔ ویسا ہی۔ جوں کا توں۔ بالکل وہی (تلفظ بعین ہی)
 بفضلہ۔ بفضلہ تعلے۔ خدا سے بزرگ بزرگ کے فضل و کرم سے
 (تلفظ بفضل ہی)

بالخر۔ خیر سے۔ اچھی طرح۔ اچھے طریقے سے۔
 بالذات۔ اپنی ذات سے۔ اپنی حقیقت سے۔ بے واسطہ۔ بے شرکت
 غیرے۔ (تلفظ بذات)
 بالترأس والبعین۔ سر آنکھوں پر۔ بسر چشم۔ پوری خوشی اور مسرت
 سے (تلفظ برأس)
 بالقصور۔ یقینی طور پر۔ ضروری۔ یقیناً (تلفظ بوض۔ ضروراً)
 بالطبع (بطع)۔ ذاتی طور پر۔ فطری طور پر۔
 بالعشی والابکار ایل۔ عشی۔ دل۔ اب کار (ع) صبح و شام۔
 بالعکس۔ برعکس۔ برخلاف۔

ب - ا

با ان۔ حرف ربط (۱۱) ہمراہ۔ ساتھ۔ مع (۲) وجود۔ (۳) صاحب
 والا۔ (۴) مطابق۔ موافق۔
 با اکرو۔ عزت والا۔ آبرو رکھنے والا جس کی لوگ عزت کریں۔
 با آنکھ۔ یاد خود اس کے۔ اس کے ہونے ہوئے۔
 با اثر (۱۱) اثر والا۔ تاثیر رکھنے والا۔ (۲) صاحب رسوخ۔
 با اختیار (۱۱) اختیار رکھنے والا۔ مختار۔ (۲) جسے قانونی طور پر اختیار حاصل ہو
 با خلاص۔ خلوص والا۔ سچے دل سے محبت رکھنے والا۔
 با ادب۔ (۱) ادب سے (۲) مؤدب۔ ادب کرنے والا۔ تیز رکھنے والا
 یا ادب یا نصیب بے ادب بے نصیب (مثل) ادب کرنے
 والا خوش نصیب اور کسارت بد بخت ہوتا ہے۔
 با ایمان (۱۱) ایمان والا۔ ایماندار۔ دیندار (۲) سچا۔ دیانتدار۔
 یا ایں ہمہ۔ با وجود ان باتوں کے۔ ان سب کے ہوتے ہوئے
 یا تند بیز (۱۱) سوزج بکار والا۔ مدبر۔ منتظم۔ (۲) ہوشیار۔ دانا۔
 یا نیر۔ تیز داز۔ شائستہ۔ حذب۔ مؤدب۔ خوش سلیقہ۔
 یا سجا (۱۱) سجاوار۔ شرم اور لحاظ رکھنے والا (۲) نیک۔
 یا خبر۔ اطلاع یا خبر رکھنے والا۔ واقف۔ ماہر۔ آگاہ۔ عقل مند (۲)
 و ہوشیار۔
 یا خدا۔ خدا پرست۔ عبادت گزار۔ نیک۔
 یا شرع (ف)۔ صفت (یا بند شرع۔ دیندار۔ نیک۔
 یا دل خواستہ (ف)۔ مذمہ جووری سے۔ نہ جانتے ہوئے بھی۔
 یا شعور (۱۱) شعور رکھنے والا۔ عقل مند۔ سلیقہ مند۔ ہوشیار (۲)
 سمجھدار۔ تیز رکھنے والا۔
 یا شوق۔ خوشی کے ساتھ۔ رضا و رغبت سے۔
 یا ضابطہ۔ دستور کے مطابق۔ قاعدے کے ساتھ حسب قانون۔
 یا طہارت (۱۱) باکی کے ساتھ وضو کیے ہوئے (۳) غسل کیے ہوئے
 یا عمل (۱۱) عمل کرنے والا۔ (۲) اچھے کام کرنے والا۔
 یا فراغت۔ اطمینان سے۔ اچھی طرح۔ آرام کے ساتھ۔ تسلی سے۔
 یا قاعدہ (۱۱) قرینے سے۔ قاعدے اور قانون کے مطابق (۲) موقع سے
 قرینے سے۔ ترتیب وار۔ درست۔ صحیح۔
 یا قرینہ۔ قاعدے سے۔ قرینے اور ترتیب سے۔ سلیقے کے ساتھ۔
 یا کمال۔ کمال رکھنے والا۔ کامل۔ ماہر۔

بالعموم۔ عام طور پر۔ عموماً۔
 یا نقد و الاصال ایل۔ نقد و دل۔ اصل (صبح و شام)۔
 یا الفرض ایل۔ فرض افرض کرتے ہوئے۔ مانتے ہوئے۔ تسلیم کر کے
 قبول کر کے۔
 بالفعل۔ اس وقت۔ سر دست۔ اب۔ فی الحال
 یا نقاب (ب) اب (تا ہی) اسے تمام نقاب و اعزاز کے ساتھ (مدح)
 جس کے نقاب ہمت سے ہوں تو اختصار کے لیے یہ لکھ بولتے
 اور لکھتے ہیں۔
 بالقصد۔ ارادے سے۔ قصداً۔ جان بوجھ کر۔
 بالقوت (۱۱) قوت اور طاقت سے۔ از روئے قوت (۲) منطقی کی
 (اصطلاح) اس قوت سے جو ابھی وجود میں نہیں آئی۔ لیکن آسکتی ہو
 بالکل ایل۔ کل (۱) سارا۔ سب۔ تمام۔ پوری طرح سے۔ ہو بہو
 یا کینا یہ۔ اشارے سے۔ پوشیدہ طور پر۔ رمز کے طور پر
 یا لہد ایل۔ لاہ اللہ کی قسم
 یا لہد العظیم ایل۔ لا۔ ایل۔ عظیم (ع) خدے بزرگ و برتر کی قسم
 یا لہد ایل۔ مزہ۔ ہمیشہ۔ بالکل۔ ایک ہی دفعہ
 یا لہد ایل۔ مشافہہ۔ رو برو۔ آنے سے۔
 یا لہد ایل۔ دو چند (۲) گنا۔ دو چندان (۲) گنا۔
 یا لہد ایل۔ آئے سے۔ رو برو۔ موجودگی میں
 یا لہد ایل۔ بغیر ہاتھ و پاؤں کے چکا کر۔ فیصل کر کے۔ چکنا۔ اکٹھا۔ کل قیمت
 یا لہد ایل۔ مواجہہ آئے سے۔ مشافہہ
 یا لہد ایل۔ واسطہ ایل۔ ویلے سے ذریعے سے۔ کسی واسطہ سے
 بلا واسطہ۔
 یا یقین۔ یقینی طور پر۔ یقیناً۔
 یا تماہر ایل۔ تما۔ مہی (بالکل) سب۔ تمام (تلفظ تہا مے ہی)
 یا جنبہ اب جنس (ہی) جوں کا توں۔ کل۔ جیک جیک۔ ہو بہو
 (۲) دراصل ۴ دیا ہی۔ اسی حالت سے۔
 یا بحمد اللہ۔ مجہدہ۔ اللہ کی تعریف کے ساتھ۔ خدا کے فضل سے۔
 (تلفظ۔ حمد ہی)
 یا بذاتہ۔ اپنی ذات سے۔ بہ نفس نفیس۔ آپ۔ خود (تلفظ بذات ہی)
 یا بالشرک ایل۔ (اشن تراک) (ف) شرکت میں۔ ساچھے میں۔

بامراد۔ مراد حاصل کیے ہوئے۔ مطلب اور مقصد پائے ہوئے۔ کامیاب
بامردت (۱) ملنسار۔ خوش اخلاق۔ مردت اور لحاظ کرنے والا (۲)
سختی۔ بیاض۔

بامزہ (۱) مزے دار۔ خوش ذائقہ۔ لذت مند (۲) دلچسپ۔
بامسلمان اللہ اللہ بامزہ بنی رام رام امتثل ہر ایک سے دوستی
کسی سے دشمنی نہیں۔ صلح کل۔ مرجان مرج۔

بانقصیب۔ اچھی قسمت والا۔ خوش قسمت۔ بھاگوں۔
بنا وجود۔ باوصف۔ اگرچہ کسی چیز کے ہوتے ہوئے۔
باوضع (۱) خوش اخلاق۔ شائستہ (۲) وضع کا پابند (۳) خوش سلیقہ۔ بچیلہ

باوضو۔ وضو کے ساتھ۔ وضو کیے ہوئے۔ پاک
باوقار (۱) وفادار۔ ساتھ دینے والا (۲) بات کا پورا۔ قول و قرار کا سچا۔
(۳) خیر خواہ۔ ہمدرد۔ ننگ حلال۔

باوقار (۱) عزت والا۔ معزز۔ محترم۔ بلند مرتبہ (۲) وقار سے۔ عزت سے۔
باہمدولے ہمد۔ سب سے ملا ہوا۔ اور سب سے الگ۔ مرجان مرج۔
آزاد شریف۔

باہمیں مرد ماں باپ ساخت (فقیرانہ) انہی لوگوں کے ساتھ نباہ
کرنا چاہیے۔ خواہ اچھے ہوں یا بُرے۔

باب (ع-۱) بند (۱) دروازہ (۲) مقدمہ۔ معاملہ (۳) کتاب کا حصہ
فضل (۴) قسم۔ نوع (۵) بابت۔ بارہ۔ معاملہ۔ متعلق۔ امر (۶)
مطلب۔ مقصد۔ غرض (۷) بند کرنا۔ مضمون۔ بحث (۸) دربار۔ بارگاہ
(۹) التواضع۔ قابل (۱۰) ایران کی بانی تحریک کے بانی سید علی محمد کا۔

لقب۔ جمع ابواب۔
باب اجابت۔ دعا قبول ہونے کا دروازہ۔

باب توبہ بند ہونا۔ (محاورہ) مسلمانوں کے عقیدے میں قیامت کے
نزدیک کسی کی توبہ قبول نہ ہوگی اور توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔
باب عالی (۱) اعلیٰ بارگاہ (۲) عثمانی عہد میں حکومت کے ذوالنور کا
باب وا ہونا۔ دروازہ کھلنا۔

بابا (ف-۵) بند (۱) والد۔ پتہ۔ دادا (۲) درویش۔ فقیر۔ بزرگ
(۳) خطاب کا عام لفظ جسے فقیر استعمال کرتے ہیں (۴) محبت سے
بچوں کو بھی اس لفظ سے مخاطب کہتے ہیں۔

بابا آدم (۱) حضرت آدم۔ انسان کا مورث اعلیٰ۔
بابا آدم کرنا ایسے (۱) مثل (نسخ) وضع ہے۔ پیشتر کا انداز نہیں۔
بابا آدم کے پوتے ہیں۔ انسان ہیں۔ حضرت آدم کی اولاد ہیں۔

بابا جان۔ پیار سے چھوٹے اپنے بڑوں کو کہتے ہیں۔
بابا لوگ۔ آنکھ بڑوں کے ملازم ان کے بچوں کو کہتے ہیں۔
بابت (بابت) (ع-۱) مٹا (۱) بارہ (۲) حصہ (۳) لیے۔ واسطے (۴)

(۴) معاملہ (۵) سبب۔ نسبت۔ متعلق (۶) بدلہ۔ عوض۔ اجرت۔ مزدور
بابر (ب-۵) مٹا (۱) مٹا (۲) مٹا (۳) مٹا (۴) مٹا (۵) مٹا (۶) مٹا
بابر (ب-۵) مٹا (۱) مٹا (۲) مٹا (۳) مٹا (۴) مٹا (۵) مٹا (۶) مٹا
بابر (ب-۵) مٹا (۱) مٹا (۲) مٹا (۳) مٹا (۴) مٹا (۵) مٹا (۶) مٹا

بابرننگ (ب-۱) رنگ۔ (ع-۱) مٹا (۲) ایک دو کا نام۔
بابیل (ب-۱) بیل (ع-۱) بند (۲) باب۔ پتہ۔ پدر۔ والد (۳) گیت جو
لوٹی کی لکھنی کے وقت گاتے ہیں۔

بابیل (ع-۱) بند دریلے فرات کے کنارے عراق کا ایک قدیم اور مشہور
شہر کا نام۔ سکندر اعظم برصغیر سے واپسی کے بعد اسی شہر میں فوت
ہوا تھا۔

بابین (Bobbin) (ب-۱) بن (۲) مٹا (۳) ڈوری باریک
فیتہ جو سیاہیوں کے کوٹوں میں لگا جاتا ہے (۴) ریل۔ گٹا۔ سلائی
مٹین کا وہ پرزہ جس پر دھاگہ بیٹھے ہیں۔

بابینٹ (Bobbinet) (ب-۱) بنٹ (۲) مٹا (۳) مٹا (۴) مٹا
ایک نہایت باریک جالی دار کپڑا۔

بابو (ب-۱) بو (ع-۱) بند (۲) شہزادہ (۳) بانگ بچہ (۴) انگریزی پڑھا لکھا
جٹلمین (۵) فیشن پرست نوجوان (۶) کلرک۔ منشی۔

بابو (ب-۱) بو (ع-۱) بند (۲) ایک بوٹی جس کے پھولوں کا روغن
جوڑوں کے درد میں استعمال کیا جاتا ہے۔

بابی (ب-۱) بی (ع-۱) بند (۲) ایک مذہبی فرقہ جس کے بانی سید علی محمد
باب تھے (۳) بابی فرقے کا پیرو (۴) ات (۵) بابی فرقے سے متعلق۔

باب (ع-۱) بند (۲) پدر۔ والد۔ ابا (۳) بزرگ
باب بنانا (محاورہ) (۱) باب کے برابر سمجھنا۔ بزرگ ماننا (۲) خوشامد کرنا
باب بنی پوتہ نواب (۱) مٹا (۲) باب کوڑی کوڑی جوڑتا ہے۔ بیٹا
فضول خرچی کرتا ہے۔

باب مدار کی پوت بھڑاری (۱) مٹا (۲) باب بھیک مانگ کر جمع کرتا
ہے اور بیٹا خزانے لٹاتا ہے (۳) باب کی حیثیت نہ دیکھ کر بیٹا
فضول خرچی کرتا ہے۔

باب بھلا نہ بھیا سب سے بھلا روٹیا (مثل) انسان کے رویہ
ہی کام آتا ہے۔ روٹے سے سب کام نکل سکتے ہیں۔

باب پر پوت پتہ پر گھوڑا بہت نہیں تو گھوڑا تھوڑا (مثل) ہر شخص
پر گھوڑا نہ کچھ خاندانی اثر ضرور ہوتا ہے۔

باب پتہ جانا۔ باب پتہ پہنچنا۔ کسی کے باب کو بڑا بھلا کہنا۔
بڑوں کو گالی دینا۔

باب دادا (۱) ابراہیم کی پشت کے لوگ (۲) بڑے بوڑھے۔
باب دادے سے۔ پشتوں سے بیڑھوں سے۔

باب دادے کا نام ہر باد کرنا۔ (محاورہ) خاندانی عزت کو بڑھانے کا۔
باب دادا کی ہڈیاں۔ خاندانی عزت۔

باب رے باب (ع-۱) رے (ع-۲) رے (ع-۳) رے (ع-۴) رے (ع-۵) رے (ع-۶) رے
باب سے میر پوت سے مسکان (۱) مٹا (۲) مٹا (۳) مٹا (۴) مٹا (۵) مٹا (۶) مٹا

باب سے دوستی۔
باب کا (۱) باب کی ملکیت (۲) موروثی۔ باب کی طرف سے ملا ہوا حصہ
باب کا سمجھنا۔ (محاورہ) اپنی ملکیت سمجھنا۔ اپنا مال سمجھنا۔

باب کرے باب پلے بیٹا کرے بیٹا پائے (مثل) ہر شخص اپنے
باب کرے باب پلے بیٹا کرے بیٹا پائے (مثل) ہر شخص اپنے

بات پانا (۱۱) مطلب سمجھ جانا (۲۱) عمدگی اور بھلائی دیکھنا۔ بات کی اصلیت کا معلوم ہو جانا۔
 بات بچپنا (۱۱) بات کا پوشیدہ رکھا جانا (۲۱) بات کا ضبط کرنا۔ بات سضم ہونا
 بات بکر (۱۱) بولنے پر محض گفتگو پر (۲۱) عزت پر۔ نام پر (۳۱) ضد پر۔ خطا پر۔ حرکت پر۔
 بات پر آنا (۱۱) آجانا (۱۱) بات پر پکا ہونا۔ ضد کرنا۔ اپنی بات پر اڑنا۔ قول کی پیروی کرنا۔ آبرو کا پاس کرنا۔
 بات پر بات چلنا۔ ایک بات کے سلسلے میں اسی قسم کا دوسرا ذکر چل نکلنا۔ ایک واقعے کے بیان میں اسی قسم کے دوسرے واقعے کا بیان ہونا۔
 بات پر بات یاد آنا (محاورہ) باتیں کرتے ہوئے بھولی ہو بات یاد آجانا۔ بات میں سے بات پیدا ہونا۔
 بات پر کھٹنا (محاورہ) اپنے قول پر قائم رہنا۔ کسی پر ثابت قدم رہنا۔ بات پر جانا (محاورہ) کسی کی بات کا خیال کرنا کسی کے کہے پر اعتماد کرنا۔ بات پر جان دینا (محاورہ) قول نبھانا۔ ضد پر قائم رہنا۔ اپنا کہا منوانے پر جان قربان کرنا۔
 بات پر جلنا (محاورہ) وضع بنانا۔ لکیر کا فقیر ہونا۔ اپنا طریقہ نہ چھوڑنا۔ بات پر خاک ڈالنا (محاورہ) اور گزر کرنا۔ بات کو بھٹلا دینا۔
 بات پر زبان کھٹنا (محاورہ) زبان بندی ہونا۔ بات کرنے کی اجازت نہ ہونا۔
 بات پر قائم رہنا (محاورہ) ضد پر اڑ جانا۔ قول پر اڑا رہنا۔ وعدہ پورا کرنا۔ بات پر کان رکھنا (محاورہ) بات کو غور سے سنانا۔
 بات پر لٹنا۔ بات پر مٹنا (محاورہ) نام کے لیے تباہ ہونا (۲۱) آبرو پر جان دینا۔
 بات بکھڑنا (محاورہ) اکتانہ چینی کرنا۔ نقص نکالنا۔ (۲۱) کسی شخص کو اس کے قول سے قائل کرنا۔
 بات پکی ہونا (محاورہ) کسی معاملے کو یقینی طور پر طے کرنا۔ ملگنی مضبوط طور پر طے کرنا۔
 بات پلٹنا (محاورہ) کہہ کر مکر جانا۔ بات بدلنا۔ (۲۱) کسی سے جو سنا، اس کو ویسے ہی الفاظ میں جواب دینا
 بات پلٹے یا دھنا (محاورہ) کسی کی بات کا پورا پورا خیال رکھنا نصیحت کو یاد رکھنا۔
 بات پوچھنا (محاورہ) (۱۱) حال دریافت کرنا (۲۱) بات دریافت کرنا۔ (۳۱) خبر لینا۔ ذکر کرنا عزت و آبرو کرنا۔ خاطر مدارات کرنا۔
 بات پوچھنا۔ بات کی جڑ پوچھنا (محاورہ) کرید کرید کر پوچھنا (۲۱) بال کی گھان نکالنا۔
 بات پہنچنا (محاورہ) بات معلوم ہونا۔ بات کا کانون تک پہنچ جانا۔
 بات چھوٹنا (محاورہ) بھید کھلنا۔ بات کا پتہ لگ جانا۔ اطلاع ملنا۔ راز افشا ہو جانا۔
 بات پھیرنا (محاورہ) بات بدلنا۔ کسی ہوئی بات کے خلاف کہنا۔

بات پھیلانا (محاورہ) کسی بات کو مشہور کرنا۔
 بات پھیلنا۔ بات کا مشہور ہو جانا۔ راز کھل جانا۔
 بات پھینکنا (محاورہ) آوازہ کسنا۔ طعنہ مارنا۔
 بات پی جانا (محاورہ) مڑا بھلا سُن کر خاموش ہو جانا۔
 بات پیدا کرنا (محاورہ) (۱۱) خوبی پیدا کرنا (۲۱) حیلہ بہانا کرنا (۳۱) کمال حاصل کرنا۔ (۲۱) عزت پیدا کرنا۔
 بات پیٹس نہ جانا (محاورہ) ادال نہ گلنا۔ گفتگو یا بحث میں دوسرے کو قائل نہ کر سکتا۔
 بات تارڑنا (محاورہ) اندازے سے معلوم کرنا۔
 بات لگنا (محاورہ) بات کا پتہ لگانا۔
 بات بیخ ہونا (محاورہ) بات کا ناکوار ہونا۔ بات کا دل پر گراں گزرنے سے بات کو بیخ سے (مثلاً) اخلاصہ یہ ہے۔ مخمق یہ ہے۔ اصل یہ ہے۔ مطلب تو یہ ہے۔
 بات نہ کر رکھنا۔ گفتگو کو ملتوی کر دینا۔
 بات تھل کی نہ بیٹھی کی۔ وعدہ بھی پورا نہ کیا۔ قول پر کبھی قائم نہیں رہا۔ متلون مزاج شخص کے متعلق کہتے ہیں۔
 بات تیر لگنا (محاورہ) بات کا بے حد ناکوار معلوم ہونا۔ بات کا سخت برا لگنا۔
 بات طمان (محاورہ) بات کا جواب نہ دینا۔ دوسرا تذکرہ چھوڑ دینا۔ بات سُن کر چُپ رہنا (۲۱) قبیل حکم سے پہنوتی کرنا۔ سنی ان سنی کرنا۔
 بات ٹھکنا (محاورہ) بات ظاہر ہونا۔ کسی بات کا اشارہ معلوم ہونا۔
 بات (ٹلنا) اٹل جانا (محاورہ) بات کا بھول میں پڑنا۔ معاملہ رفت گزشت ہو جانا۔
 بات ٹوٹنا (محاورہ) بات نہ رہنا۔ وعدے کا پورا نہ ہونا۔ معاہدہ منسوخ ہونا۔
 بات ٹھٹھنا (محاورہ) منصوبہ یا بدھنا۔ کسی کام کا قصد کرنا۔ کسی ارادے پر بھگ جانا۔
 بات ٹھنکنا (محاورہ) کسی بات کا ارادہ کر لینا۔ کوئی بات دل میں بیٹھ جانا۔
 بات ٹھنڈی پڑنا (محاورہ) معاملے کا دب جانا۔ کسی بات کے متعلق فساد ختم ہونا۔
 بات ٹھٹھانا (۱۱) کوئی بجز قائم کرنا۔ کسی امر کا طے کر لینا۔ منگنی کرنا۔
 بات ٹھٹھنا (محاورہ) (۱۱) بجز قرار پانا (۲۱) نسبت یا منگنی قرار پانا۔
 بات جا بڑھنا (محاورہ) دوران گفتگو میں کسی اور ذکر کا چھڑ جانا۔
 بات جانا (محاورہ) (۱۱) اعتبار جانا رہنا (۲۱) عزت میں فرق آنا ساکھ نہ رہنا۔
 بات جب ہے۔ اثر اس وقت ہے۔ تعریف تب کی جائے گی۔
 بات جھنڈا (محاورہ) بات ذہن نشین ہونا۔ کسی بات کا اثر پیدا ہونا۔
 بات جو جاسے (ہی) یا بی مانگ نہ (۱۱) (مثلاً) اگر اپنی عزت جانتے ہو تو بیانی تک کا احسان نہ اٹھاؤ۔ کسی کا تھوڑا سا احسان اٹھانے میں بھی عزت نہیں رہتی۔
 بات چھٹنا (محاورہ) بات کو غلط سمجھنا۔ بات کی تردید کرنا۔
 بات چھنڈے سے بھر چھٹنا (محاورہ) کسی بڑی بات کا مشہور کرنا (۲۱) کسی کی بے عزتی کر دینا۔

بات جی سے گھڑنا محاورہ الجھونی بات بنانا۔ اپنی طرف سے بات
 تراش لینا۔
 بات جی کو لگنا محاورہ (۱) بات کا اچھا معلوم ہونا (۲) بات کا
 ذہن نشین ہونا۔
 بات جی میں بیٹھنا محاورہ (۱) بات کا دل پر اثر ہونا (۲) کسی واقعے یا
 خبر کا قریب قریب معلوم ہونا۔
 بات جی میں نہ رہنا محاورہ (۱) راز کا ظاہر ہو جانا۔ پیٹ کا ہلکا ہونا۔
 بات چیانہ۔ چیا جانا محاورہ (۱) بات ٹال جانا۔ کہتے کہتے رک جانا کلام
 کے سرخ کو پلٹ دینا۔
 بات چیا چیا کے کرنا محاورہ (۱) صاف صاف گفتگو نہ کرنا۔ اصل
 بات کو چھپانے کی کوشش کرنا (۲) دبا دبا کے بات کہنا (۳) اترانا
 بات چیکسوں میں اٹرانا محاورہ (۱) کسی کو ہنسی میں ٹالنا۔
 بات چلانا محاورہ (۱) تذکرہ بت شروع کرنا۔ ذکر پھیرنا۔
 بات چلنا محاورہ (۱) سلسلہ گفتگو شروع ہونا تذکرہ ہونا۔
 بات چلی جانا محاورہ (۱) بات کا سلسلہ نہ ٹوٹنا۔ بات کا تسلسل قائم رہنا
 بات چندرا کے کہنا محاورہ (۱) الجھان بن کے بات کہنا۔
 بات چھڑنا محاورہ (۱) گفتگو کا شروع ہونا۔
 بات چھڑنا محاورہ (۱) گفتگو کا آغاز کرنا۔ کسی امر کے متعلق بات شروع کرنا
 بات چیت۔ بول چال۔ گفتگو۔ گفت و شنید (۲) مول قول (۳) علم چیان
 بات ڈیانا۔ محاورہ (۱) جھاننا۔ معاملہ کو خفیہ رکھنا۔ ضبط کرنا
 بات دل پر نقش ہو جانا (دل میں اتر جانا) محاورہ (۱) بات کا اثر ہونا
 بات ذہن نشین ہونا۔
 بات دل میں تھب جانا محاورہ (۱) بات کا دل پر نقش ہو جانا۔
 بات دماغ سے نکالنا محاورہ (۱) نئی بات کہنا (۲) ایجاد کرنا۔ بات کو
 ذہن سے نکال دینا۔
 بات دوورہنجنا محاورہ (۱) بات کا پھیلنا۔ بات کا مشہور ہو جانا۔
 (۲) مغلنے کا طول پکڑنا۔
 بات دو کوڑی کی ہونا محاورہ (۱) ساکھ جاتی رہنا۔ بھرم نہ رہنا بے وقعت
 بات دہرانا۔ محاورہ (۱) ایک بات کو دوبارہ کہنا۔
 بات دھری اٹھانی نہیں رہتی۔ نہ بات کا جواب دیتے بنتی ہے
 نہ چپ رہے۔ نہ اقرار کر سکتے ہیں نہ انکار۔
 بات دچی آنا محاورہ (۱) جواب دہی کا ذمہ دار ہونا (۲) باز پرس ہونا۔
 پوچھ پچھ ہونا۔
 بات ڈالنا محاورہ (۱) معاملہ پیش کرنا۔ ذکر پھیرنا۔
 بات ڈوبنا محاورہ (۱) اعتبار کھونا۔ بات ہلکی کرنا۔ وفادار مٹانا کام بگاڑنا
 بات ڈھال کے کہنا محاورہ (۱) اشارے کے لئے میں کہنا۔ بات کا سیدھ
 اور صاف الفاظ میں نہ کہنا۔
 بات ڈھالنا محاورہ (۱) الزام رکھنا۔ تہمت لگانا۔
 بات ذہن پر چھٹنا محاورہ (۱) بات کا خیال میں آنا۔ ذہن نشین ہونا۔
 بات ذہن میں آنا۔ محاورہ (۱) بات کا خیال میں آنا۔ بات کا دل پر اثر کرنا

بات ذہن میں اتر جانا بات ذہن میں بیٹھ جانا محاورہ (۱) بات
 کا ذہن نشین ہونا۔ (۲) تدبیر کا دل میں چمکانا۔
 بات رفت گذشت ہونا محاورہ (۱) بات اٹل جانا۔ بات کا بھول ہونا
 بات رکھ لینا محاورہ (۱) کہا مان لینا (۲) عزت رکھ لینا (۳) وقت پر کام
 آنا۔ اڑتے وقت کام آنا۔
 بات رو میں نکل جانا محاورہ (۱) گفتگو کے جوش میں آکر بات کا منہ
 سے نکل جانا۔ بات کا بے اختیار ب پر آ جانا۔
 بات رہ جاتی ہے۔ وقت نکل جانا ہے (۱) پیش ضرورت کی گھڑی
 نکل جاتی ہے لیکن ضرورت کے وقت کام نہ آنے والا یاد رہ جاتا ہے
 بات رہ جانا محاورہ (۱) رہ رہ جانا۔ عزت رہ جانا (۲) تذکرہ باقی رہ جانا
 (۳) آرزو پوری ہو جانا (۴) شکر رہ جانا۔
 بات زبان پر آنا محاورہ (۱) کسی امر کا تذکرہ ہونا۔
 بات زبان پر لانا محاورہ (۱) کسی بات کا بیان کرنا۔ بات کہنا۔
 بات زبان سے نکلنا محاورہ (۱) بات ظاہر ہونا۔ بات کہی جانا۔
 بات زہر سے بھری ہونا محاورہ (۱) بات میں شرارت بھری ہونا۔ بات میں
 فساد کا مادہ ہونا۔
 بات زہر لگنا۔ بات زہر ہونا محاورہ (۱) گفتگو کا بے حد ناپسند ہونا۔ بات
 کا دل کو بہت برا لگنا۔
 بات سبک ہونا محاورہ (۱) بات ہلکی ہونا۔ ساکھ مٹنا۔
 بات سمجھانا محاورہ (۱) کسی امر سے واقف کرنا۔ خبردار کرنا (۲) نکتہ تانا
 مضمون بتانا۔
 بات سہر سہر ہونا۔ بات کا کامیاب ہونا۔ التجا کا قبول ہونا۔ درخواست
 کا منظور ہونا۔
 بات سفوارنا محاورہ (۱) بات بنانا۔ بہتری کی اصلاح کرنا۔
 بات سلنے کا دماغ ہونا۔ بات سننے کی برداشت رکھنا۔ مغل مزاج ہونا۔
 بات سو بات۔ جیسا موقع ہو گا۔ دیکھا جائے گا۔ ہر بات موقع پر کی
 جائے گی۔
 بات سونی ان سنی کر دینا محاورہ (۱) بات سن کر ٹال دینا۔ توجہ نہ دینا۔
 بات سو بھنا محاورہ (۱) خیال میں نہ مضمون آنا (۲) کسی کے سوال کا
 جواب سو بھ جانا۔
 بات سوچنا محاورہ (۱) تدبیر سوچنا۔ غور کرنا۔ تجویز کرنا۔
 بات سہنا محاورہ (۱) کڑوی بات برداشت کرنا۔ سخت بات سن کر صبر کرنا
 بات سے بات نکلنا محاورہ (۱) بات کرتے ہوئے کوئی نئی بات نکلنا
 بات سے بھرننا محاورہ (۱) کہنے کے کہنا۔ بد عہدی کرنا۔ قول سے پھرنا
 بات سے نکل جانا محاورہ (۱) کسی بات سے مکر جانا۔
 بات شہر و شکر ہونا محاورہ (۱) بات خوشگوار ہونا۔ بات کا دل کو پسند آنا۔
 بات شہرک ہونا۔ بات کا خوشگوار ہونا۔ بات کا بہت پسند آنا۔
 بات ظاہر ہو جانا محاورہ (۱) محاورہ (۱) عہد باراز کھلنا۔ نتیجہ نکلنا۔
 بات کا اور پھوٹنا (۲) بات کا اصل مطلب۔ بات کا سرسور۔
 بات کا ایما پانا محاورہ (۱) مطلب سمجھنا۔ اشارہ سمجھنا۔ کنایت پانا

بات کو منہ سے لے لینا (محاورہ) کوئی بات کرنے لگے اس سے پہلے

خود کر دینا
بات کھٹائی میں پڑنا (محاورہ) کام میں دیر لگ جانا۔ ملنتوی ہو جانا۔

آئندہ برائے جاننا۔

بات کھٹائی میں ڈالنا (محاورہ) بات نکلنے رکھنا۔ ملتوی کر دینا (۲۱) مثال
مٹوں کرنا۔

بات کھٹکنا (محاورہ) بات دل میں چھیننا۔ دل میں خلش ہونا۔ ناپسند ہونا۔

بات کہہ کے کنگھار ہونا (محاورہ) کچھ کہہ کر الزام اٹھانا۔ کچھ کہہ کر کھٹکانا۔
یا شرمندہ ہونا۔

بات کھٹکنا (محاورہ) صحیح بات کا پتہ لگانا۔ افشائے راز ہونا۔

بات کہنا (محاورہ) (۱۱) منہ سے بولنا (۲) ذکر کرنا۔ قصہ بیان کرنا۔
(۳) نصیحت کرنا۔

بات کہنے کو رہ گئی ہے (محاورہ) شکایت رہ گئی ہے۔ یادگار رہ گئی ہے

بات کہنے میں بھٹ پٹ۔ بہت جلد لکھے پھر میں۔

بات کہنے میں آتی ہے (محاورہ) ابھی ہو یا بڑی کہنی ہی پڑتی ہے۔

بات کھونا۔ بے آبرو ہونا۔ عزت گنونا۔

بات کہی اور پرائی ہوئی (مثلاً) امن سے نکلی ہوئی بات چھپانے نہیں

پھیلتی۔ مجید ظاہر کر کے انسان بے بس ہو جاتا ہے۔

بات کہنے کی لاج (محاورہ) قول کی شرم۔ کہنے کا نباہ۔

بات کیا ہے (۱۱) واقعہ کیا ہے۔ مطلب کیا ہے۔ (۲۱) اصل کیا ہے۔
(۳) آسان کیا ہے۔

بات کی بات کو (محاورہ) تھوڑی دیر کے لیے۔ دم بھر کے لیے۔

بات کی بات میں (محاورہ) آنا فنا۔ فوراً۔

بات کی بات لالت کی لالت۔ بات کی بات خرافات کی خرافات

بکری کے سینگوں کو بخر گئے بیری کے پات (مثلاً) جب مذاق کے

پیرائے میں کوئی ناگوار بات کہی جائے تو اس وقت یہ مثل پڑتے ہیں۔

بات کی تاب لانا (محاورہ) بذر بانی کو برداشت کرنا۔ تحمل کرنا۔

بات کی تہ۔ اصل مطلب۔ بات کی حقیقت۔

بات کی جان۔ اصل بات۔ صحیح معاملہ۔ اصلی واقعہ۔

بات کی کرڑ لگنا (محاورہ) ایک ہی بات بار بار کہنا۔ رٹ لگانا۔

بات کی کر باندھنا (محاورہ) بات کو معمول مقرر کرنا۔ بات کو ایک رسم بنانا

بات کی گرفت ہونا (محاورہ) بات پر اعتراض ہونا۔ نکتہ چینی ہونا۔ روک ٹوک

بات کے شاخسلنے (محاورہ) بات کے مختلف پہلو۔ بات کے کلی پھیندنے

بات (گمرہ) گانگھڑ میں باندھنا (محاورہ) بات کو خوب یاد رکھنا۔

بات گوزشتہ ہونا۔ (محاورہ) افسوں اور بے کار بات ہونا۔ ناقابلِ ماعت ہونا

بات گول کرنا (محاورہ) بات ٹالنا۔ صاف صاف کچھ نہ بتانا۔

بات گھٹانا (محاورہ) جی سے بات بنانا۔ اپنے دل سے بات بنا کے کہنا۔ خلاف

واقعہ کہنا۔ سخن سازی کرنا۔

بات گزری ہونا۔ معاملہ رفت گزشت ہونا۔ بات کا بھلا دینا۔

بات گئی پھر ہاتھ نہیں آتی (محاورہ) ایک مرتبہ اعتبار جاتا رہے تو پھر

بات کا تینگ کر پٹانا (کرنا) ذرا سی بات کو بڑھا کر بیان کرنا۔ ذرا سی

بات کو طول دینا۔ سیدھی بات میں جھگڑا پیدا کرنا۔

بات کا پاجانا (محاورہ) بات کو سوجھ لینا۔ تہمت پہنچ جانا۔

بات کا پٹلو۔ بات کا انداز۔ بات کا اشارہ۔ کنایہ

بات کو لورا۔ بات کا لگا۔ دھنی۔ اپنے کے کو پورا کرنے والا۔

صادق انقول۔ وعدے کا سچا۔ باوقار راست باز۔

بات کا طشا۔ گفتگو میں دخل در معقولات کرنا۔

بات کا چوک آدمی، ڈال کا چوکا بندہ پھر سمجھنا نہیں (مثلاً) جو

مشخص موقع پہنچ جاتا ہے۔ وہ پھر اس کی تلافی نہیں کر سکتا جس

طرح بندر کے ہاتھ سے درخت کی ٹہنی چھوٹ جلتے تو وہ گھر پڑتا ہے

بات کا پھینٹنا۔ اشارہ۔ کنایہ۔

بات کا ڈرہن سے اتر جانا۔ بات کا بھول جانا۔ دھیان سے اتر جانا

بات کا رنگ مانا (محاورہ) بات کا بااثر ہونا۔ بات کا میاب ہونا۔

بات کا رگڑ ہونا (محاورہ) نصیحت میں اثر ہونا۔ تدبیر کا بااثر ہونا۔

بات کا سہ پیر ہونا (محاورہ) گفتگو کا لے ترتیب اور بے نگاہ ہونا

بات کا ناکمل ہونا۔ بے تکلی اور ناقص گفتگو ہونا۔

بات کا موقع (محاورہ) بات چیت کرنے کی فرصت۔ گفتگو کا محل

بات کان پڑنا (محاورہ) اتفاقاً کوئی بات سن لینا۔

بات کان نہک پھینچنا (محاورہ) بات سنانا دینا۔ خیر پھینچنا۔

بات کان سے سننا (محاورہ) غمزہ سے سننا۔ کسی بات کی طرف توجہ دینا۔

بات کان میں پڑنا۔ گوش کرنا ہونا۔

بات کان میں (چھونک دینا) ڈال دینا (محاورہ) (۱۱) باخبر کر دینا۔

کہہ دینا (۲۱) کسی کے کان میں آہستہ سے کوئی بات کہنا۔

بات کا (کچا) ہیٹھا (محاورہ) بے اعتبار۔ ناقابلِ اعتبار۔ جویات پر

قائم نہ رہے۔

بات کتر دینا۔ (محاورہ) بات کاٹنا

بات کٹ جانا (محاورہ) بات کرتے ہوئے کاٹ دینا۔ بیچ میں بول

پڑنا۔ گفتگو کا سلسلہ کٹ جانا۔

بات کرتے پھر مارتا ہے۔ (محاورہ) سخت بدکلام ہے۔

بات کرسی نشین ہونا (محاورہ) بات ٹھک بیٹھ جانا۔ بات کا مان پٹنا۔

بات کرنا (محاورہ) (۱۱) بولنا۔ گفتگو کرنا۔ متوجہ ہونا۔ مخاطب ہونا۔ گلہ کرنا۔

بات کرنے میں پھول جھڑنا (محاورہ) شیریں کلام ہونا۔

بات کرید کرید کر پوچھنا (محاورہ) جرح کرنا۔ بال کی کھال نکلانا۔

بات کر پوتی ہونا۔ لگنا (محاورہ) بات تلخ ہونا۔ بات ناگوار ہونا۔

بات کو آچل میں باندھنا (محاورہ) کسی قول کو یاد رکھنا۔ وصیت یا

نصیحت پر عمل کرنا۔

بات کو چکر دینا (محاورہ) بات کو پھر پھار کے کہنا۔ بات کو سیدھی طرح بیان

نہ کرنا۔

بات کو طول دینا (محاورہ) بات کو لمبا کرنا۔ جھگڑا بڑھانا۔

بات کو گرہ میں باندھنا۔ دیکھے بات کو آچل میں باندھنا۔

معقولات کرنا۔

بات میں رخسے نکالنا (محاورہ) نکتہ چینی کرنا عیب جوئی کرنا نقص نکالنا
 بات میں نہ ہر لونا۔ فساد ڈالنا۔ شرارت کرنا۔
 بات میں سے بات نکالنا (۱) سلسلہ گفتگو میں اسی قسم کی اور باتیں
 بیان کرنا (۲) کوئی نازک جزیہ نکالنا (۱) ایک بات سے دوسری بات پیدا کرنا۔
 بات میں فی نکالنا۔ اعتراض کرنا۔ نکتہ چینی۔ عیب نکالنا۔
 بات میں فتنہ بھولنا۔ ہنسی مذاق سے باتیں بڑھتے بنانا۔ ہونا
 بات میں فرق آنا (محاورہ) عزت کم ہوجانا۔ اعتبار نہ رہنا۔ وضع کے خلاف
 بات میں کلام ہونا (محاورہ) شہہ ہونا۔ اعتراض ہونا۔
 بات میں کھڑے بیٹھ کرنا۔ نکتہ چینی کرنا۔ اعتراض کرنا۔ مین میکھ نکالنا۔
 بات میں لگانا۔ گفتگو میں مشغول کرنا۔ فریب دینا۔
 بات میں ہندی کی چمکی نکالنا (محاورہ) (۱) کرید کرید کے پوچھنا (۲)
 بال کی کھال اتارنا۔
 بات میں سمیٹتی ہونا (محاورہ) کسی بات میں کمی ہونے کی وجہ سے بے عزت ہونا
 بات نہ بنانا (محاورہ) وضع پر قائم رہنا۔ کسی کے لاج رکھنا۔
 بات نہ نشر ہونا (محاورہ) بات ناگوار ہونا۔
 بات نہ نظر میں ہونا (محاورہ) معاملہ یاد ہونا۔ دھیان میں ہونا۔
 بات نہ نکالنا (محاورہ) تذکرہ کرنا (۲) مضمون پیدا کرنا (۳) تہمید نکالنا۔
 بات نہ نکالنا (۱) منہ سے کوئی کلمہ نکالنا (۲) نتیجہ نکالنا۔ (۳) ادا ظاہر ہونا۔
 بات نہ آنا (محاورہ) جواب نہ آنا۔ پھر کہتے نہ بن پڑنا۔
 بات نہ پوچھنا (محاورہ) اخیر نہ لینا بے پردائی کرنا۔ خاطر تواضع نہ کرنا۔
 منہ نہ لگانا۔
 بات نہ سننا (محاورہ) توجہ نہ دینا بے پردائی کرنا۔
 بات نہ کرنا (محاورہ) بھولے پن، سیدھے پن یا خوف کی وجہ سے
 بات نہ کہنے نہ بن پڑنا۔
 بات نہ کرنا (محاورہ) مغرور ہونا۔ خاطر میں نہ لانا۔
 بات نہ ہونا (محاورہ) آسان ہے۔ معمولی بات ہے۔
 بات نہیں بکنے کے لیے (محاورہ) معمولی بات نہیں۔ فساد کی بات ہے
 سخت بھکڑے کی بات ہے۔
 بات سچی پڑنا (محاورہ) ابرو جاتی رہنا بے وقعت ہونا۔
 بات ورتنی ہونا (محاورہ) بات یا وقعت ہونا۔ بات درست ہونا۔
 بات ہاتھ آنا (لگنا) (محاورہ) نتیجہ حاصل ہونا۔ مقصد۔ پالینا مدلول جانا
 بات ملی ہونا (محاورہ) دوسروں کی نظر میں بے وقعت ہونا۔ قدر گھٹنا
 بات کا باہر اعتبار سے کرنا۔
 بات ہنس کے طال دینا (محاورہ) فضول سمجھ کر بات کا جواب نہ دینا
 بات ہنسی میں اڑا دینا (محاورہ) بات کا مذاق میں اڑا دینا۔ بات کو
 حقاقت سے طال دینا۔
 بات سمیٹتی ہونا (محاورہ) سبکی ہونا۔ عزت میں فرق آنا۔ ساکھ بگڑنا۔
 بات ہی کیا ہے (محاورہ) آسان سی بات ہے کچھ مشکل نہیں۔
 بات یہ ہے۔ (محاورہ) بات تو یہ ہے۔ اصل مطلب یہ ہے۔ اصل مقصد

نہیں ہونا۔

بات لاکھ کی کرنی خاک کی ایشل، باتیں بنانے میں آستانہ لیکن عمل کچھ نہیں
 بات لانا (۱) نسبت کا پیغام لانا۔ (۲) الزام لگانا۔
 بات لہ تک آنا۔ بات کا زبان سے نکلنا۔ بات کا منہ سے بیان ہونا۔
 بات لہ لگانے رکھنا (محاورہ) معاملے کا فیصلہ نہ کرنا۔ صاف صاف کہنا
 بات لکھ رکھنا (محاورہ) بات کو یقینی سمجھ کر یاد رکھنا۔ بات کو بھولنے
 نہ دینا
 بات لگانا (محاورہ) جعلی کرنا لگائی بجھائی کرنا۔ غیبت کرنا۔ کان بھڑا (۱)
 نسبت یا منگی بھڑانا (۱) الزام رکھنا۔ تہمت لگانا۔
 بات لگنا (محاورہ) نسبت قرار پانا۔ سگائی ہونا۔
 بات لمبی چوڑی ہونا (محاورہ) بات میں طوالت ہونا (۲) معاملہ کا بڑھنا۔
 بات مات کرنا۔ چال چلنے نہ دینا۔ کسی فریب میں نہ آنا۔ کسی کی تدبیر کو
 ناکام بنا دینا۔
 بات ماننا (صحیح پر عمل کرنا۔ بات قبول کرنا۔
 بات منحہ سے نکالنا (اتارنا) ذہانت سے کوئی تازگ بات پیدا کرنا
 بہت اچھی چیز سوچنا۔ مضمون بیان کرنا۔
 بات مقدور سے ماہر کرنا (محاورہ) اپنی حیثیت سے بڑھ کر کام کرنا۔
 بات من میں لہنا (محاورہ) بات دل کو پسند لگانا۔ بات یاد رہنا۔
 بات منگو آنا (محاورہ) نسبت منگو آنا رسگائی کا پیغام طلب کرنا۔
 بات منہ پر آنا (محاورہ) چرچا ہونا۔ تذکرہ ہونا
 بات منہ نہ رکھنا (محاورہ) کسی بات کو چھپانا۔ ذکر کرنا۔
 بات منہ نہ لہنا (محاورہ) رو برو کہہ دینا۔ کسی سے خوف نہ لگانا۔
 بات منہ سے نہ نکالنا (محاورہ) شکوہ نہ کرنا۔ غدر نہ کرنا چپ ہو رہنا
 صبر کرنا۔ ضبط کرنا۔
 بات منہ سے نہ نکلنا (محاورہ) لاجواب ہونا۔ عاجز ہونا۔
 بات منہ سے مٹکی برائی ہوئی (امش) منہ سے جو بات نکل جائے
 وہ مشہور ہو جاتی ہے۔
 بات میں۔ لمحہ بھر میں۔ فوراً۔ تروت
 بات میں بات ملانا (محاورہ) (۱) باں میں باں ملانا (۲) کسی کی بات میں
 دخل دینا (۳) کسی بات میں پارہی لگانا۔
 بات میں بات نکالنا (محاورہ) کوئی نئی بات نکالنا۔ پارہی لگانا (۱)
 جس قسم کی بات ہو رہی ہو اس میں کوئی نئی بات کرنا۔ نکتہ چینی کرنا۔
 بات میں لونا۔ (محاورہ) کسی کے معاملے میں دخل دینا (۲) بیچ میں بول پڑنا
 بات میں نوح نکالنا (محاورہ) نکتہ چینی کرنا۔ اعتراض کرنا۔
 بات میں پیلو نکالنا (محاورہ) بات میں سے کوئی نئی بات نکالنا۔
 بات میں پھول چھڑانا (محاورہ) پیاری پیاری باتیں کرنا۔ دل پسند باتیں کرنا۔
 بات میں تورنا (محاورہ) کسی کو تھام لیا کرنا۔ گفتگو میں عاجز کرنا۔
 بات میں چیدیاں لگانا (محاورہ) صاف صاف نہ کہنا۔ اصلی بات
 پھیلانے کی کوشش کرنا۔
 بات میں دخل دینا (محاورہ) کسی کی گفتگو میں بول اٹھنا۔ دخل در

یہ ہے۔ خلاصہ یہ ہے۔
 باتوں باتوں میں۔ اثنائے کلام میں۔ دوران گفتگو میں۔
 باتوں باتوں میں کام نکالنا محاورہ ترکیب سے کام بنانا۔ مفت میں
 کام بنالینا۔
 باتوں باتوں میں کہنا محاورہ کسی اور تذکرے میں مطلب کی بات کہنا
 باتوں بوڑھا کرتب خوار۔ باتوں چکنا کاموں خوار (۱) مثل باتیں تو
 تجربہ کاروں کی سی ہیں لیکن افعال بے وقوفوں کے سے ہیں (۲) باتیں
 خوب بنانا مگر کام نہ کرنا۔
 باتوں سے ڈر جانا محاورہ دھمکی میں آجانا۔
 باتوں سے کام نہیں چلنا محاورہ کام کرنے سے ہوتا ہے۔ باتوں سے نہیں
 باتوں سے پکیر کیک جانا محاورہ کسی کی تلخ یا بیری باتوں سے دکھ ہونا۔
 باتوں کا تار۔ باتوں کا سلسلہ
 باتوں کا جھاڑا بندھنا محاورہ لگانا بولے جانا۔
 باتوں کا دفعت کھولنا محاورہ لکھ شکوہ کرنا۔
 باتوں کا دھنی (۱)۔ صفت باتیں کرنے میں استاد بہت باتیں بنانے والا
 باتوں کی کنسوئیاں لینا محاورہ باتوں کی ٹوہ لگانا۔
 باتوں میں محاورہ بات چیت میں (۲) وابیات میں۔ مزخرفات میں۔
 باتوں میں آنا محاورہ کہنے کا یقین کر لینا۔ فریب کھانا۔ بہکاتے میں آنا
 باتوں میں اڑانا محاورہ (۱) ہنسی میں ٹالنا (۲) فریب دینا۔ دھوکا دینا۔
 باتوں میں اٹھانا محاورہ باتوں میں لگانا (۲) بات چیت میں دیر کر دینا۔
 باتوں میں ہسلانا محاورہ محض باتوں سے خوش کرنا (۲) دم جھانسا دینا۔
 باتوں میں بھٹلانا محاورہ باتوں کے ذریعہ بہکا لینا۔ دم دینا۔
 باتوں میں تار پھینا محاورہ باتیں کرنے ہونے اندازہ لگانا کہ کہنے والا
 کیا کہنا چاہتا ہے۔
 باتوں میں ٹالنا محاورہ باتوں میں وقت گزارنا
 باتوں میں ٹھوننا محاورہ باتیں کرتے ہوئے کسی کے دلی عندیے کو معلوم کرنا
 باتوں میں دھر لینا محاورہ الاجواب کرنا۔ قائل کرنا۔
 باتوں میں کھل جانا محاورہ بے تکلف ہو جانا۔ دل کی بات کہہ دینا
 باتوں میں لگانا محاورہ دیکھنے بات میں لگانا۔
 باتیں بچھارنا (۱) باتیں بنانا۔ سخن سازی کرنا۔ جھوٹ بولنا (۲) خوشامد
 کرنا (۳) سختی مارنا (۴) الزام دھرنا۔
 باتیں بنانا محاورہ جھوٹ بولنا۔ سختی بھولنا۔ یا وہ کوئی کرنا۔ جیلے بہلنے بنا
 باتیں چرٹنا محاورہ لگائی بچھا کرنا۔ جھپٹی کھانا۔
 باتیں چبا چبلے کرنا محاورہ غرور کے ساتھ باتیں کرنا۔
 باتیں چھانڈنا (۱) باتیں بنانا۔ جھوٹی باتیں کرنا (۲) طعنے مارنا۔ طنز آمیز
 باتیں کرنا۔
 باتیں سنانا محاورہ اڑا بھلا کہنا۔ طعنے دینا۔ سخت سست کہنا۔
 باتیں سننا محاورہ کسی کی گفتگو سننا۔ کلام بردھیان دینا (۲) کڑوی
 باتوں کو برداشت کرنا۔ بڑا بھلا سمہنا۔
 باتیں ملانا۔ ہاں میں ہاں ملانا۔ جی ہاں جی ہاں کرنا۔

باتیں ہیں۔ دھوکے ہیں۔ دھوکے ہیں۔ دھمکیاں ہیں۔
 باتیں ہی باتیں ہیں (۱) کہنا ہی کہنا ہے حقیقت کچھ نہیں (۲) صرف باتیں
 ہی کرتا آتی ہیں۔ ٹلنا ہے (۳) محض دھمکی ہی دھمکی ہے۔
 باتوں۔ باتوں۔ باتوں۔ باتوں۔ باتوں۔ باتوں۔ باتوں۔ باتوں۔
 بہت باتیں بنانے والا۔ فضول گو۔ کیواسی۔ جی۔
 باٹ (د)۔ مذا [وزن توڑنے کے بٹے (۱۲) [منٹ] راستہ۔ راہ۔ طریق۔ سڑک
 پگڈنڈی۔
 باٹ جلے جانے یا باہا پڑے جانے (مثل کسی کے ساتھ سفر کرنے
 یا واسطہ پڑنے ہی سے اس کی حقیقت معلوم ہوتی ہے۔
 باٹ دیکھنا (۱)۔ بٹے کی جانچ پڑتال کرنا۔ (۲) راہ دیکھنا۔ انتظار کرنا۔
 باٹ ساڑھو۔ راہ رو۔ مسافر۔ (۱) [باٹ کا مٹا۔ وہ آٹا جو چکی کے گرنڈ میں گرنے سے خود بخود جمع ہو جاتا ہے
 باٹ کا روڑا (۱) اینٹ کا وہ ٹکڑا جس سے راہ چلنے میں رکاوٹ ہو۔ (۲) [محازا] غریب مفلس۔ نادار۔
 باٹ مارنا راستہ کھٹوٹا کرنا۔ نقصان پہنچانا۔
 باٹی (باٹی) (۱)۔ منٹ [روٹی کی چھوٹی چھوٹی ٹھکیاں جو انکانوں پر رکھ
 کر سینک لیتے ہیں
 باج (ف) (۱)۔ منٹ [خراج۔ محصول۔ زراعت نگاری۔
 باج دار۔ خراج دینے والا۔ محصول دینے والا۔
 باج گزار۔ خراج گزار۔ ریاست کو محصول دینے والا۔ رعیت
 باج گیر (ف)۔ صفت [محصول لینے والا۔ محصول۔ کلکٹر۔
 باجا (با)۔ جا (۱)۔ منٹ [بکنے کی چیز۔ ساز۔ مزامیر۔
 باجا کجا۔ گانا بجانا۔ ڈھول ڈھکا۔ دھوم دھام۔ آکجا تابع مہل ہے
 باجیٹی (با)۔ ج۔ پ۔ ہی (۱)۔ منٹ [برہمنوں کی ایک ذات
 باجرا (با)۔ ج۔ را (۱)۔ منٹ (۱) ایک قسم کا غلہ (۲) بجانا سختی بوندی
 (۳) نہایت باریک کٹی ہوئی چھایا۔
 باجرا برسنا محاورہ اچھوار پڑنا۔ سختی بوندی کرنا۔
 باجرا سا بکھڑنا محاورہ اچھے کل ہونا۔ بے چین ہونا۔ پریشان ہونا (۲) منتشر
 ہونا (۳) تھک کر چور ہونا۔
 باجرا مرغ۔ ایک قسم کا سیاہ پرندہ۔ جس کے پردوں پر باجرا کے برابر
 زرد رنگ کی چتیاں ہوتی ہیں۔
 باجری (با)۔ ری (۱)۔ منٹ [چھوٹی قسم کا باجرا۔
 باجن (با)۔ جن (۱)۔ منٹ [ڈھول تانے وغیرہ
 باجنا (با)۔ نا (۱)۔ منٹ [بجانا۔ مشہور ہونا۔ موسوم ہونا۔
 باجنتڑ۔ باجنتڑی (با)۔ جن۔ تڑ۔ با۔ جن۔ ت۔ ری (۱)۔ منٹ [باجے والا
 (۲) وہ ٹیس جو گانے بجانے والوں سے لیا جاتا ہے۔
 باجی (با)۔ جی (۱)۔ منٹ [آپا۔ بڑی بہن۔ ہمیشہ خواہرا (۲) اپنے
 سے بڑی خاتون۔
 باچھ (۱)۔ منٹ (۱) گوشہ قلب (۲) پنی۔ چندہ۔ رگان (۳) جمع بندی۔
 کھاتہ۔

۱۲۱) نصف شاہانہ شاہی۔ بادشاہ کا۔

بادشاہی محکمہ۔ سلطنت کا حکمہ شاہی محکمہ۔
بادشاہی خرچہ (۱۱) شاہانہ خرچہ۔ امیرانہ خرچہ (۲) فنصول خرچی حیثیت سے بڑھ کر خرچہ۔

بادشاہی سند۔ شاہی فرمان۔ شاہی سرٹیفکیٹ۔

بادل (با۔ ذل) (۵-۱-۱) مذ۔ ابر۔ گھٹنا۔

بادل آنا (محاورہ) ابر کا نمودار ہونا۔ آسمان پر گھٹنا دکھائی دینا۔

بادل اٹھنا (محاورہ) بادل کا آسمان پر نمودار ہونا۔

بادل اُٹا اُٹا اُٹا اُٹا (امٹڈا کے آنا (محاورہ) بہت زور کی گھٹنا بہت زور شور سے بادل کا آنا۔

بادل اُٹنا (محاورہ) بادل گھر کے آنا۔ بہت زور سے گھٹنا چھانا۔

بادل برسنا (محاورہ) بارش ہونا۔ مینہ برسنا۔

بادل بھٹنا۔ ابر گھٹنا۔ مطلع صاف ہونا۔ گھٹنا کا ہٹنا۔

بادل بھگنا (محاورہ) بادلوں کا بہت نیچے ہوجانا۔

بادل بھوم بھوم کے برسنا (محاورہ) زور شور سے مینہ برسنا۔

بادل بھانا (محاورہ) آسمان پر بادلوں کا محیط ہونا۔ ابر گھرنا۔

بادل بھینٹنا (محاورہ) بادلوں کا منتشر ہونا۔ آسمان کھل جانا۔

بادل ویچہ کر گھرے پھوٹنا (امٹل) امید بر آنے کے آثار دیکھ کر نقصان کر بیٹھنا۔

بادل کا آسمان پر گھر آنا (محاورہ) بادل کا آسمان پر پھیل جانا۔ گھٹنا چھانا۔

بادل پھیلنا۔ بادل بھانا۔ بادل گھنا۔

بادل کھڑکنا۔ بادل کھینچنا۔ (محاورہ) بادلوں کے باہم ٹکرانے سے آواز پیدا ہونا۔

بادل کھٹنا (محاورہ) آسمان کا بادلوں سے صاف ہوجانا۔

بادل کی طرح کھینچنا (محاورہ) غصے میں آکر شور مچانا۔

بادل گھر آنا۔ بادل گھرتا (محاورہ) بادل چھانا۔ آسمان پر بادلوں کا جمع ہونا۔

بادلا۔ بادلہ (با۔ لا، بادلہ) (۵-۱-۱) مذ (۱) سونے چاندی کا تار جس سے گولٹا وغیرہ بناتے ہیں (۲) زری کا پیرا جو ریشم اور چاندی سونے کے تاروں سے بنایا جاتا ہے۔ زربافت۔

بادلا منٹھے سے نیم نہیں چھپتا (امٹل) صورت بدلنے سے سیرت نہیں بدلتی۔

بادنہ (با۔ نہ۔ نہ) (۲-۱) مذ [سانپ کا مڑہ جو مار گزیدہ کے لیے تڑپاتی ہے۔

بادنجان (انباروں جان) (ع۔ ۱-۱) مذ [مینگن]

بادنجان فرنی۔ ٹاٹو۔

بادہ (با۔ دہ) (۱-۱) مذ [شہاب]۔ مے۔ خمر۔

بادہ برست۔ بادہ پیا۔ بادہ خوار۔ بادکش۔ بادہ گار۔ بادہ نوش۔

شہاب پینے والا۔ شہابی۔

بادہ پرستی۔ بادہ پیکانی۔ بادہ خوری۔ بادہ کشی۔ بادہ گساری۔ بادہ نوشی۔

شہاب خوری۔

بادہ گلہ رنگ۔ (ف۔ صف) سرخ شہاب۔

بادھا (با۔ دھا) (س۔ ۱۰-۱) مذ [۱] رکاوٹ۔ مخالفت۔ مزاحمت۔ خلل (۲) [تتار۔ ۳۱-۱] نخطہ۔ (۳) نقصان (۵) دکھ۔ درد (۶) پلنگ کی ڈوری

رسی۔ نوارٹ۔ (۴) [۵] بڑھوتری۔ زریاتی۔

بادھا پڑنا۔ خلل پڑنا۔ رکاوٹ ہونا۔ کسی معاملے میں تعطل یا جبران پیدا ہونا۔

بادی (با۔ وی) (ف۔ صف) [۱] ہوا پیدا کرنے والا۔ برقی۔ نفاخ (۲) سرد۔ ٹھنڈا (۳) [مٹ] برودت اور ریاچ پیدا کرنے والا مادہ (۴) بانی۔ گھٹیا (۵) بشارت۔ نقصان۔

بادی بن (۱-۱) مذ [نفاخ پیدا کرنے کی کیفیت۔

بادی پھیلنا (محاورہ) سستی آنا۔ بھنگا کرنا۔

بادی (با۔ وی) (ع۔ صف) [۱] شروع۔ (۲) شروع کرنے والا۔

بادی الزائے (با۔ وی) (ع۔ صف) [۱] سرسری رائے۔ ابتدائی مفکرہ۔

بادی النظر (با۔ وی) (ع۔ صف) [۱] نظر۔ سرسری نظر سے۔ ابتدائی نظر میں۔ دیکھتے ہی اردو میں اس کے ساتھ "ہیں" لگانے میں۔

بادیان (با۔ دیان) (ف۔ ۱-۱) مذ [سولف

بادیان رومی۔ انیسون۔ ایک دوا کا نام۔

بادیہ (با۔ دیہ) (ع۔ ۱-۱) مذ [صحرا۔ بیابان۔ جنگل۔ دشت۔

بادیہ پیا۔ بادیہ گرد۔ جنگل میں پھرنے والا۔

بادیہ (با۔ دیہ) (ف۔ ۱-۱) مذ [۱] بڑا پیار۔ بڑا کٹورا۔ (۲) مشک (۳) بادوس (۴) [انگ۔ ۱-۱] مٹ [عورتوں کا تنگ

شٹوکر۔ انکیا۔

باڈی (Body) (با۔ ڈی) [انگ۔ ۱-۱] مذ [۱] مادی وجود جسم (۲) دھڑکا دھکا کسی چیز کا (۳) آدمی۔ شخص (۴) جماعت۔ گروہ۔ بکن

باڈی بلڈر (Body Builder) (با۔ ڈی) [انگ۔ ۱-۱] مذ [تن ساز۔ ورزش سے جسم بنانے والا (۲) موٹو وغیرہ کا ڈھانچہ بنانے والا۔

باڈی بلڈنگ (Body Building) (با۔ ڈی) [انگ۔ ۱-۱] مذ [جسم بنانے کا عمل یا

دیشہ (۲) گاڑیوں کے ڈھانچے بنانے کا عمل یا پیشہ

باڈی گارڈ (Body Guard) (با۔ ڈی) [انگ۔ ۱-۱] مذ [مخالف دستہ کسی شخص کا (۲) محافظ۔

باڈل (با۔ ذل) (ع۔ ۱-۱) مذ [سجی۔ فیاض۔ بخشش کرنے والا سخاوت کرینا

بار (۵-۱-۱) مذ [۱] (۲) دیر۔ (۳) نوبت۔ مرتبہ۔ دفع۔ موقع (۴) گھر کے ساتھ بطور تابع یعنی اہل و عیال (۵) سفینہ کا دن۔ شنبہ۔

بار (ع۔ ۱-۱) مذ [۱] نیکی کرنے والا۔ نیکوکار (۲) اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام۔

بار (ف۔ ۱-۱) مذ [۱] بوجھ۔ گرانی۔ وزن۔ (۲) سبب (۳) دخل۔ رسائی (۴) نوبت مرتبہ۔ دفعہ۔ شمار (۵) اجازت۔ لائسنس (۶) حمل۔ گرجہ (۷) فرض۔

ذمہ داری (۴) [۵] پھل۔ (۶) عدالت۔ جناب۔ دربار (۷) [۸] صف [جلیل بزرگ (۱۰) ناگوار تکلیف دہ (۱۱) برسانے والا (جیسے گور بار) (۱۲) کار کے ساتھ بطور تابع (کاروبار) (۱۳) کسی چیز کی کثرت ظاہر نہ کرنے کے لئے اچھوتے بار۔ سنگ بار)

بار آنا۔ (۱) پھل آنا (۲) موقع آنا۔ باری آنا۔ اب اس جگہ باری مستعمل ہے

بار آور (۱۱) پھل لانے والا۔ پھل دار (۲) حاملہ عورت۔ وضع حمل کرنیوالی (۳) نتیجہ تیز۔
 بار آور ہونا۔ پھلنا۔ پھل لانا۔
 بارِ اللہ۔ بارِ خدا (۱) خدا کی جناب (۲) اسے بزرگ خدا۔
 بارِ الہا۔ بارِ خدایا۔ اسے خدا سے بزرگ۔
 بار بار۔ کھڑی کھڑی۔ متواتر۔ رگاتار۔
 بار بٹالینا۔ ذمہ داری میں شریک ہونا سرگرم ہونے کا۔
 بار بٹانی۔ غلے کے گاہنے سے بیکٹیر فصل کے کھینے باندھ کر تقسیم کرنا۔
 بار بردار۔ بوجھ اٹھانے والا۔ فنی۔ پانڈی۔
 بار برداری۔ بوجھ اٹھانا (۲) مزدوری۔ بوجھ ڈھونے کی اجرت چھوڑے
 وغیرہ کا کوڑا (۳) بوجھ ڈھونے کے ذرائع (۴) کڑی پھکڑا۔ چوپائے وغیرہ)۔
 بار تر وید۔ اعتراض کو رد کرنے کا ذمہ۔ جواب دہی کی ذمہ داری۔
 بار یا نار (معاورہ) رسائی ہونا۔ دخل ہونا۔
 بار ثبوت۔ ثبوت کرنے کا ذمہ۔ ثبوت دینے کی ذمہ داری۔
 بار ثبوت منتقل کرنا۔ ثبوت کی ذمہ داری دوسرے فریق پر ڈالنا۔
 بار خاص (۱) خاص اجازت (۲) دربار خاص۔ رنج کا اجلاس۔
 بار خاطر۔ ناگوار خلاف طبع۔ ناپسند۔
 بار خاطر نہیں بار خاطر ہوں (مثل) چالاک دوست ہوں تکلیف نہیں
 بار دار (۱) پھل دار۔ میوہ دار (۲) حاملہ۔ گیاہیں (۳) صاحب اولاد (۴)
 خوش قسمت۔ نصیب والا (۵) مال دار۔ دولت مند (۶) بوجھ سے لدا ہوا۔
 بار دانہ۔ کسی چیز کے رکھنے کا برتن (۲) اسباب رکھنے اور باندھنے کا
 سامان (۲) قزح کے کھانے پینے کا سامان (۴) سوداگری کے سامان
 کی بوریاں اور صندوق وغیرہ (۵) باورچی خانے کا سامان (۶) لکڑی کھنکڑا
 بار رہن۔ گردی ہونے کا بوجھ۔ کسی چیز کو گردہ رکھنے کی رقم۔
 بار عام۔ عام اجازت۔ دربار عام۔
 بار کش۔ بوجھ کھینچنے والا۔ سامان لے جانے والا۔
 بار کاہ۔ اجلاس کی جگہ۔ چھری۔ عدالت۔ دربار کا مقام۔
 بار گیر (۱) بوجھ اٹھانے والا جانور۔ بار کش۔ لڈو گھوٹا اوسٹ وغیرہ
 (۲) وہ سوار جس کا ذاتی گھوڑا نہ ہو۔
 بار گیری۔ گھوڑے پر سواری کی نوکری۔
 بارور۔ دیکھنے بار آور۔
 بار بار آباد کی جمع (۱) بار بار۔ کئی بار کئی مرتبہ۔ اکثر۔ بہت۔ دفعہ۔
 بار یاب۔ اجازت پانے والا۔ دربار میں پہنچ جانے والا۔ ملاقات کرنیوالا۔
 بار یابی۔ بارگاہ میں حاضری۔ دربار میں داخلہ۔
 بار۔ (Bar) (انگ۔ ۱۰۔ ند۔ ۱) ویلیوں کی جماعت (۲) مجرم کا
 کٹہرا (۳) ہوٹل میں وہ جگہ جہاں مشراب تقسیم ہوتی ہے (۴) مشراب خانہ
 بار ایٹ لاء (Bar-At-Law) بیرسٹر ایٹ لاء کا مخفف۔
 بار ایسوسی ایشن (Bar Association) انجمن وکلاء وکیلوں
 کی جماعت۔
 بار روم (Bar Room) وکیلوں کے بیٹھے کا کمرہ (پکری میں)

بارا (با۔ را) [۱-۵۔ ند] (۱) وہ راگ جو بیانی کا چرس کھینچتے وقت گاتے
 ہیں (۲) وہ شخص جو آپاستھی کی غرض سے گزرتیوں پر کھڑا ہو کر بیانی سے
 بھرا ہو چرس لیتا ہے (۳) اجتری میں تار کھینچنے کا فعل (۴) وہ کھانا
 جو بوڑھے شخص کے سرنے پر دیا جاتا ہے (۵) ہوا (۶) [صف]۔
 دس اور دو ۱۲ بارہ۔
 بارہ جواری (جواری۔ زور کا بگاڑ) لغوی معنی بارہ گنا طاقت (زبردستی
 جبر سے۔ سینہ زوری سے۔
 بارات (با۔ ات) [۱-۵۔ مٹ] دیکھیے برات۔
 باران (با۔ ان) [۱-۵۔ ند] (۱) مینہ۔ بارش (۲) برسنے والا۔
 باران دیدہ (۱) وہ جس پر مینہ پڑے گا (۲) تجربہ کار۔
 باران رحمت۔ رحمت کی بارش۔ وہ بارش جو مخلوق کے حق میں نازل ہوتی ہے
 باران گیر (ف۔ ص) بھجنا۔
 بارانی (با۔ رانی) [ف۔ ص] آبن جس کی سرسبزی بارش پر منحصر ہو۔
 (۲) [مٹ] بارانی زمین۔ چاہی زمین کی ضد (۳) وہ چغیر یا کوٹ جو
 بارش کا بچاؤ کرتا ہے۔ برساتی۔
 بارانی زمین۔ وہ زمین جس کی زراعت صرف مینہ سے ہوتی ہے۔
 باراہ (با۔ راہ) [۱-۵۔ ند] سؤرخند۔ میر۔ شوک (۲) دشمن کا تمیسا اوتار جو
 سور کے روپ میں ہوا تھا (۳) گاؤں کے قریب کی زمین۔
 باربر (Barber) بار۔ بر (انگ) [۱-۵۔ ند] تانی۔ حجام۔ اصلاح ساز
 بارتنگ (بار۔ تنگ) [ف۔ ۱۰۔ ند] ایک دوا۔
 بارو (با۔ رو) [ع۔ ص] سرد۔ ٹھنڈا۔ جمع ہوارو
 باروڈر (Barder) بار۔ ڈر (انگ) [۱-۵۔ ند] [۱] حد۔ سرحد (۲)
 حصار (۳) گناہ حاشیہ۔
 بارز (با۔ ز) [ع۔ ص] آشکار۔ ظاہر (جمع ہوارز)
 بارش (با۔ رش) [ف۔ ۱۰۔ مٹ] مینہ۔ برکھا۔ برشکال۔
 بارک (Barrack) (با۔ رک) [انگ] [۱-۵۔ ند] فوجیوں کے
 رہنے کے مکانات۔ سپاہیوں کے رہنے کی کوٹھڑیوں کی نظر واضح
 تلفظ بیرک)
 بارک ماسٹر (Barrack Master) فوجی مکانات کا محافظ
 اور متبم۔
 بارک اللہ (با۔ ر۔ گل۔ لاء) [ع] اللہ تجھے برکت دے (تعریف و
 تعجب کے موقع پر استعمال کرتے ہیں)
 بار کی آبارگی (ف۔ ۱۰۔ مٹ) دفعہ۔ عرصہ۔ مرتبہ (مکات میں مستقل
 ہے۔ جیسے اکبارگی۔ فوراً)
 بارندہ (با۔ رن۔ وہ) [ف۔ ص] برسنے والا۔
 بارو (با۔ رو) [۱-۵۔ مٹ] بالو۔ ریت۔
 باروت۔ باروڈ (با۔ روت) [ف۔ ۱۰۔ مٹ] گندھک
 شورے اور کوئلے وغیرہ کا مرکب جو آتشیں اسلحہ اور آتشبازی میں
 کام آتا ہے۔
 باروڈ اڑنا۔ باروڈ کا آگ پکڑنا۔

بارود و حاتم (۱۱) بارود جمع کرنے کا مقام (۲) بارود بنانے کا مقام۔
 بارود میں آگ لگانا۔ اشتغال پیدا کرنا۔ دفعہ
 بارہ (با۔ رہ۔ الف۔ ا۔ نذ) (۱) معاملہ۔ باب۔ تعلق (۲) نوبت۔ بارہ دفعہ
 بارہ (با۔ رہ۔ الف۔ صفت) دس اور دو۔ ۱۲
 بارہ ابھرن سولہ سنگھار (۵)۔ مرکب عدوی بارہ مہربن، سر پیشانی
 کان، ناک، گلہ، سینہ، بازو، ہاتھ، کمر، ہاتھ پائی کی انگلیوں کے زلیور اور سولہ
 سنگھار ہیں۔ غسل، تیل لگانا، سرگوندھنا، چندن پھیرنا، سر کا زلیور پہننا،
 کوئی بار پہننا۔ ہندی لگانا، کمر میں کر بند، بان لگانا۔ پاؤں اور گلے میں زلیور
 پہننا، کاہل لگانا، بند سے پہننا، تھ پہننا وغیرہ۔
 بارہ امام۔ مسلمانوں کے فرقہ امامیہ کے بارہ پیشوا یا ان دین جو کھنڈ
 صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے ہوئے ہیں (۱۱) حضرت علی کرم اللہ
 وجہہ (۱۲) امام حسن (۱۳) امام حسین (۱۴) امام زین العابدین (۱۵) امام
 امام باقر (۱۶) امام جعفر صادق (۱۷) امام موسیٰ کاظم (۱۸) امام رضا
 (۱۹) امام محمد تقی (۲۰) امام محمد تقی (۱۱) امام حسن عسکری (۱۲) آنے
 والے امام ممدی۔
 بارہ باٹ (۱۱) بارہ راستے (۲) مجازاً (۳) آوارہ۔ منتشر (۳) جبران پریشان
 (۴) متفرق۔ جدا جدا (۵) ضائع۔ بے کار (۶) مختلف (۷) الٹے (۸)
 بر باد۔ ویران۔ تباہ۔
 بارہ باٹ کرنا (محاورہ) کھینچنا۔ تیزتر کرنا۔ منتشر کرنا۔
 بارہ باٹ ہونا (محاورہ) تیزتر ہونا۔ بکڑنا۔ اچھڑنا۔ بر باد ہونا۔
 بارہ بارہ جو ہمیں کوس۔ بہت دور تک (زیادہ فاصلہ تلے کیلئے مستقل
 بارہ بانی۔ بارہ بانی کا (۱۱) پورا کامل۔ بڑا ماہر (۲) بے نقص بے عیب
 (۳) تھوڑی تھوڑی دیر میں بات بدلنے والا (۴) خالص۔ کھرا (۵) صحیح
 سلامت (۶) بڑبڑ کا۔
 بارہ بیکے والی (۱۱) بہت سے بچوں والی عورت (۱۲) سوری مادہ
 بارہ بجز (۱)۔ (۲) سورج کی بارہ منزلیں جنہیں سورج ایک سال
 میں طے کرتا ہے۔ علم نجوم کے اعتبار سے ان کے یہ نام ہیں (۱)
 حمل (۲) ثور (۳) جوزا (۴) سرطان (۵) اسد (۶) سنبلہ (۷)
 میزان (۸) عقرب (۹) قوس (۱۰) جدی (۱۱) دلو (۱۲) حوت۔
 بارہ برس بعد گوڑے اٹھوڑے اکے دن بھی پھرتے ہیں (۱)
 مصیبت اور پریشانی کا زمانہ ہمیشہ نہیں رہتا۔ کچھ عرصہ بعد کم
 درجے کے لوگ بھی بڑے مرتے پر پہنچ جاتے ہیں۔
 بارہ برس تک فقری اور امیری کی دو نہیں جاتی (مثل) عادت
 بہت عرصے کے بعد بدلتی ہے۔
 بارہ برس دلی میں رہے مگر بھارت ہی جھونکا کے (مثل) اچھی
 جگہ رہ کر بھی کچھ نہ سیکھا۔ اچھے لوگوں کے پاس رہ کر بھی ترقی نہ کی۔
 بارہ پتھر (۱) چھانڈنی یا شہری وہ حدود جن کو بارہ ستونوں سے گھیرتے
 ہیں (۲) حدود شہر۔ چھاؤنی کی چھار طرفہ حدیں۔
 بارہ پتھر باہر کرنا (۱) چھاؤنی کی حدود سے نکال دینا (۲) شہر بے کرنا۔
 بارہ پٹنی ٹوپ (۱) وہ ٹوپ جس میں بارہ پونڈ (قریباً پانچ سیر) کا گولہ

ہوتا ہے (۲) مجازاً بہت موٹا آدمی۔
 بارہ ٹوپی (۱) یورپ کی بارہ قومیں یا حکومتیں (۲) عقلمندوں اور مدبروں
 کی مجلس۔
 بارہ خانوادے۔ فقرا کے بارہ فرقے جو صوفیائے کرام کے نام سے منسوب
 ہیں (۱) قادریہ منسوب بہ شیخ عبدالقادر جیلانی (۲) نقشبندیہ منسوب
 خواجہ نقشبند (۳) صفویہ منسوب بہ شیخ صفوی (۴) عبدالرؤسیہ
 منسوب بہ شیخ عبدالرؤس (۵) توریہ منسوب بہ شیخ ابوالحسن توری (۶)
 (۷) اشٹاریہ منسوب بہ شیخ عبداللہ شطاری (۸) یوسفیہ منسوب بہ
 شیخ احمد یوسفی (۹) انصاریہ منسوب بہ شیخ عبداللہ انصاری (۱۰) زلیوریہ
 منسوب بہ خواجہ بدرالدین زاہد (۱۱) قلندریہ منسوب بہ شیخ محمد قلندر
 (۱۲) مخضریہ منسوب بہ خواجہ احمد مخضرمی (۱۳) حنیفیہ منسوب بہ
 حضرت امام حسین رضی
 بارہ درسی (۱) بارہ دروازوں والا مکان جو عموماً باغ میں یا دریا کے کنارے
 بنایا جاتا ہے (۲) مجازاً ہوادار کھلا مکان۔
 بارہ سنگا (سنگھا) ایک قسم کا سرن جس کے سینک شاخ در شاخ ہوتے ہیں
 بارہ کھڑی۔ ہندی میں حمد تک فصیح کو اعراب سے ملا کر پڑھنا۔
 بارہ ماسد۔ بارہ ٹکڑوں کا ہندی گیت جس میں عورت بارہ مہینوں کے
 فراق کے مصائب کا ذکر کرتی ہے۔
 بارہ ماسی (۱) ایسا درخت جو سارہ سال سرسبز اور بارور رہے (۲) ایسا
 قلی جو مستقل خدمت کرے۔
 بارہ مسالے (۱) مذ۔ زہرہ سفید۔ زہرہ سیاہ۔ پودینہ۔ الائچی۔ مزج سیاہ
 سرخ۔ مزج۔ نمک۔ دھنیا۔ ہلدی۔ لونگ۔ اجوائن۔ دارچینی۔
 بارہ مہینے (۱) تمام سال (۲) ہمیشہ۔ نرت۔ سدا۔ عمر بھر
 بارہ مہینے تیس دن۔ ہر وقت۔ ہر ساعت۔ ہمیشہ۔
 بارہ میں تین گئے تو رستے کیا خاک (مثل) اگر برسات کے تین مہینوں
 میں بارش نہ ہوئی تو زمیندار تونباہ ہو گیا۔
 بارہ وفات (۱) ربیع الاول کا مہینہ (۲) ربیع الاول کے وہ ابتدائی بارہ
 بارہ دن جن میں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بیمار رہے اور وفات پائی
 بارہ ہاتھ کی زبان ہونا۔ بہت زبان دراز ہونا۔
 بارہ ہا۔ اکثر کہتی بار۔
 باری (با۔ ری۔ ع۔ صفت) (۱) پیدا کرنے والا خالق (۲) اللہ تعالیٰ کا ایک
 صفاتی نام۔
 باری (با۔ ری۔ ا۔ ر۔ ا۔ مٹ) موقع۔ نوبت۔ نمبر۔ وقت۔ دفعہ جو کی پہرہ۔
 (۳) کھڑی در کچھ (۴) [مذ] ہندوؤں کی ایک ذات۔
 باری باری۔ اپنے اپنے نمبر پر۔
 باری بھرتا۔ اپنے اپنے وقت پر پہرہ جو کی دینا۔
 باری دار (۱) (۱) بچی باری پر کام کرنے والا (۲) چوکی والا۔ دربان۔ چوکیدار
 محافظ۔ پاسبان۔
 باری کا بھارت۔ باری کا تپ۔ وہ تپ جو ایک دن چھوڑ کر آئے۔
 باری سے۔ ایک دن چھوڑ کر نہ پھر۔

بازار اٹھ جاتا۔ بازار بند ہو جاتا۔
 بازار اس کا جوے کے دے (مثلاً اعتبار اسی کا ہوتا ہے جو قرض ادا کر دے۔
 بازار بٹھا۔ کٹوتی۔ منہائی۔ ڈسکاؤنٹ (Discount)
 بازار بڑھ جاتا۔ بڑھنا (محاورہ) نرخ بڑھ جانا۔ قیمت کا زیادہ ہو جانا۔
 بازار بند ہونا (محاورہ) بازار کی دکانوں کا بند ہونا (۲) ہڑتال ہونا۔
 بازار بیٹھک۔ بازار میں بیٹھنے کا جلس۔ نہ بازار۔
 بازار تیز ہونا۔ بازار بڑھنا (محاورہ) اگر انی ہونا چیزوں کی قیمتیں بڑھنا
 بازار ٹھنڈا (ہڑتال) ہونا۔ بازار سرد ہونا (محاورہ) سرد بازار ہونا۔
 بازار میں بکری نہ ہونا۔
 بازار چلنا۔ دیکھنے بازار گرم ہونا۔
 بازار خرچ۔ جیب خرچ۔
 بازار دکھانا۔ کسی چیز کو بیچنے کے لیے بازار لے جانا۔ بیچ ڈالنا۔
 بازار دیکھنا (محاورہ) بازار میں سودا لینے جانا۔ بازار میں کسی سوسے کی تلاش کرنا۔
 بازار کا بھاؤ۔ بازار کا مٹول۔ بازار کا عام نرخ (۲) واجبی قیمت۔
 بازار کا چلن۔ بازار کا دستور۔ خرید و فروخت کا اخلاقی ضابطہ۔
 بازار کی چھٹک رائڈ کارونا (محاورہ) دونوں بے اثر ہونے میں
 یعنی نہ کوئی بازار کی چھٹیک پر نوجو دینا ہے اور نہ بھوہ کے ہونے پر۔
 بازار کی گالی کسی کی؟ جو پتھر کے دیکھنے اس کی۔ بازار کی گالی
 جس نے سنی اس پر کٹوتی (مثلاً) بازار میں جو شخص گالی دینے
 والے کو دیکھے گا۔ لوگ سمجھیں گے کہ کسی کو گالی دی گئی ہے (۲)
 جو کسی عام الزام یا تعن کا جواب دے گا۔ لوگ سمجھیں گے کہ وہی
 اس طعن یا الزام کا ہدف ہے۔
 بازار کی مٹھائی (محاورہ) آسانی سے مل جانے والی چیز (۲) مجازاً کسی عورت
 بازار کے بھاؤ بیٹا (محاورہ) خوب بیٹا۔ شارع عام پر مار کھانا۔ لوگوں
 کے سامنے ذلیل ہونا۔
 بازار گرم ہونا (محاورہ) خوب خرید و فروخت ہونا۔ زیادہ مانگ ہونا۔
 بازار گرمنا (محاورہ) بھاؤ کم ہونا۔ نرخ ٹھنڈا (۲) بے قدری ہونا۔
 بے وقعت ہونا۔
 بازار لگانا (۱) منڈی لگانا (۲) دکان کھولنا (۳) چیزوں کو پھیلانا (۴)
 پھیل کرنا۔ انبوج کرنا
 بازار لنگا نہیں گئے (۱) ہوتے ہوتے (مثلاً) وقت سے پہلے موقع دھو بیٹنا
 بازار منہل ہونا۔ بکری کم ہونا۔
 بازار میں آگ لگنا (محاورہ) غلہ گراں ہونا چیزوں کا ہنگام ہونا۔
 بازار میں سر منڈا گھرنے کھنا (مثلاً) بات مشہور ہو جائے تو چھپانے
 کی کوشش بے کار ہے۔
 بازار ناپنا (محاورہ) آوارہ پھرنا۔ بغیر کسی مقصد کے بازاروں چکر لگانا
 یا بازار (بازار) (۱) (۲) (۳) (۴) (۵) (۶) (۷) (۸) (۹) (۱۰) (۱۱) (۱۲) (۱۳) (۱۴) (۱۵) (۱۶) (۱۷) (۱۸) (۱۹) (۲۰) (۲۱) (۲۲) (۲۳) (۲۴) (۲۵) (۲۶) (۲۷) (۲۸) (۲۹) (۳۰) (۳۱) (۳۲) (۳۳) (۳۴) (۳۵) (۳۶) (۳۷) (۳۸) (۳۹) (۴۰) (۴۱) (۴۲) (۴۳) (۴۴) (۴۵) (۴۶) (۴۷) (۴۸) (۴۹) (۵۰) (۵۱) (۵۲) (۵۳) (۵۴) (۵۵) (۵۶) (۵۷) (۵۸) (۵۹) (۶۰) (۶۱) (۶۲) (۶۳) (۶۴) (۶۵) (۶۶) (۶۷) (۶۸) (۶۹) (۷۰) (۷۱) (۷۲) (۷۳) (۷۴) (۷۵) (۷۶) (۷۷) (۷۸) (۷۹) (۸۰) (۸۱) (۸۲) (۸۳) (۸۴) (۸۵) (۸۶) (۸۷) (۸۸) (۸۹) (۹۰) (۹۱) (۹۲) (۹۳) (۹۴) (۹۵) (۹۶) (۹۷) (۹۸) (۹۹) (۱۰۰)
 عام بکری کی چیز (۲) نمائشی چیز۔ ہلکی۔ بودی چیز۔

بازاری (با۔ زا۔ ری) [ف۔ ۱۔ مذ] (۱) بازار سے نسبت رکھنے والا (۲)
 عام آدمی۔ معمولی شخص (۳) بازار کا بیٹھنے والا۔ اوباش۔ غیر معتبر۔
 (۴) رنڈی
 بازاری آدمی (۱) عام شخص (۲) بد اخلاقی شخص۔ بے اہم و شخص غیر
 معتبر آدمی۔
 بازاری عورت۔ کسی عورت۔ بیسوا۔ رنڈی
 بازاری قیمت۔ بازار کا بھاؤ۔ بازار کا مٹول۔ عام قیمت۔ عام بھاؤ
 بازاری گپ۔ افواہ۔ لوگوں کی چھوٹی آرائی بات۔
 بازار گاں (ف۔ مذ) دکاندار۔ سوداگر۔ بین دین کرنے والا۔
 بازو (ف۔ ص) اٹھلاڑی۔ کھیلنے والا (۲) ایک قسم ٹوٹن کونز۔
 بازو (با۔ زا۔ ری) [ف۔ ۱۔ مذ] (۱) کتنی سے شلنے تک کا حصہ۔ ڈنڈ۔
 (۲) پرندوں کے جسم کا وہ حصہ جس میں پر ہوتے ہیں (۳) مجازاً (۴) معارف
 مددگار۔ (۵) ادائیں بائیس کی فوج۔ میمنہ بیسیرہ (۵) سانھی۔ دوست
 (۶) مرثیہ خواں کا جوڑی دار (۷) دروازے کے دونوں طرف کی لکڑیاں
 بازو بند۔ بازو پر باندھنے کا زیور۔
 بازو بھگنا (محاورہ) بازو میں یک نخت حرکت کا پیدا ہونا۔ بازو میں جھٹکا
 محسوس ہونا (کسی دوست کے ملنے کا شگون)
 بازو توٹنا (۱) اڑنے کے لئے مستعد ہونا (۲) آمادہ ہونا۔
 بازو ٹوٹنا (۱) بازو کا ٹوٹ جانا [مجازاً] قوت کا جانا رہنا (۲) بھائی یا
 عزیز دوست فوت ہو جانا۔
 بازو ٹوٹے بازو باز ہی (مجازاً) (مثلاً) ہم جنس کو تکلیف پہنچے تو
 ہم جنس ہی اس کی مدد کرتا ہے۔
 بازو دھوئی۔ (۱) ادوہ دعویٰ جو عورت کے خاندان کے ساتھ
 نہ رہنے کی صورت میں لے ہمراہ رکھنے کے لیے کیا جاتا ہے (۲) عورت کا تارن۔
 بازو دینا۔ مدد کرنا۔ مدد دینا۔
 بازو دہ جانا (محاورہ) بازو کا تھک جانا بے کار ہو جانا۔ شل ہو جانا۔
 بازو کی پھلی۔ بازو کا گوشت جو کسی قدر اچھا ہوتا ہے۔
 بازی بازی (ف۔ ۱۔ مٹ) (۱) کھیل۔ تماشا (۲) فریب۔ دھوکا (۳)
 کبوتر کا بیٹھا کھانا۔ (۴) اداؤں۔ روک (۵) شرط کی رقم تاش۔ کھف
 شرطی کا کھیل۔
 بازی آنا (محاورہ) کھیل سے واقف ہونا (۲) تقسیم میں گننے یا تاش کے
 کئے اچھے اوراق کا ملنا۔
 بازی اٹھنا (محاورہ) کھیل ختم ہونا۔
 بازی اڑنا (محاورہ) کھیل میں لگوانا ہونا۔ کھیل کا لیا ہو جانا۔
 بازی بازی بارش یا باہم بازی (ف۔ مثل) باب کی ڈاڑھی سے کھینا
 جب کوئی چھوٹا بڑے آدمی سے اچھے اس وقت کہتے ہیں۔
 بازی بدنا (محاورہ) شرط لگانا۔ داؤ لگانا۔
 بازی بانا (محاورہ) بازی جیتنا۔ شرط جیتنا۔ کامیاب ہونا۔
 بازی چھوٹنا (محاورہ) بازی کا غالب آنا۔
 بازی دینا (محاورہ) ہرا دینا۔ مات دینا۔

باسی پھولوں میں باس نہیں، پر دوسری بلغم نری آس نہیں (امیل) جیسے
باسی پھولوں میں خوشبو نہیں رہتی۔ اسی طرح پردیسی سے محبت
کے نیاہ کی امید نہیں ہوتی۔

باسی تباہی - ددین دن کا بچا ہوا کھانا۔

باسی دانتوں - منہ ہاتھ دھونے سے پہلے - نہار منہ

باسی عید - عید کا دوسرا دن - ٹرو

باسی گڑھی میں ابال آنا (امیل) اڑھایے میں جانوں کا سا جوش آنا
وقت گزر جانے کے بعد کسی کام کرنے کا جذبہ پیدا ہونا۔

باسی کھانا بچا ہوا کھانا۔ وہ کھانا جس پر مدت گزر گئی ہو۔

باسی منہ - نہار منہ - ناشتہ نہ کئے ہوئے - صبح کچھ کھانے بغیر

باشندہ (باشندہ) [ف] ہو - ہوا گرے - کچھ بھی ہو - پروا نہیں۔

باشندہ گان (باشندہ) [ف] - [ذ] باشندہ کی جمع۔

باشندہ (باشندہ) [ف] - [ذ] [ساکن] رہنے والا - بسنے والا۔

باشندہ (باشندہ) [ف] - [ذ] [ساکن] رہنے والا - بسنے والا۔

باشندہ (باشندہ) [ف] - [ذ] [ساکن] رہنے والا - بسنے والا۔

باشندہ (باشندہ) [ف] - [ذ] [ساکن] رہنے والا - بسنے والا۔

باشندہ (باشندہ) [ف] - [ذ] [ساکن] رہنے والا - بسنے والا۔

باشندہ (باشندہ) [ف] - [ذ] [ساکن] رہنے والا - بسنے والا۔

باشندہ (باشندہ) [ف] - [ذ] [ساکن] رہنے والا - بسنے والا۔

باشندہ (باشندہ) [ف] - [ذ] [ساکن] رہنے والا - بسنے والا۔

باشندہ (باشندہ) [ف] - [ذ] [ساکن] رہنے والا - بسنے والا۔

باشندہ (باشندہ) [ف] - [ذ] [ساکن] رہنے والا - بسنے والا۔

باشندہ (باشندہ) [ف] - [ذ] [ساکن] رہنے والا - بسنے والا۔

باشندہ (باشندہ) [ف] - [ذ] [ساکن] رہنے والا - بسنے والا۔

باشندہ (باشندہ) [ف] - [ذ] [ساکن] رہنے والا - بسنے والا۔

باشندہ (باشندہ) [ف] - [ذ] [ساکن] رہنے والا - بسنے والا۔

باشندہ (باشندہ) [ف] - [ذ] [ساکن] رہنے والا - بسنے والا۔

باشندہ (باشندہ) [ف] - [ذ] [ساکن] رہنے والا - بسنے والا۔

باشندہ (باشندہ) [ف] - [ذ] [ساکن] رہنے والا - بسنے والا۔

باشندہ (باشندہ) [ف] - [ذ] [ساکن] رہنے والا - بسنے والا۔

باشندہ (باشندہ) [ف] - [ذ] [ساکن] رہنے والا - بسنے والا۔

باشندہ (باشندہ) [ف] - [ذ] [ساکن] رہنے والا - بسنے والا۔

باشندہ (باشندہ) [ف] - [ذ] [ساکن] رہنے والا - بسنے والا۔

باشندہ (باشندہ) [ف] - [ذ] [ساکن] رہنے والا - بسنے والا۔

باشندہ (باشندہ) [ف] - [ذ] [ساکن] رہنے والا - بسنے والا۔

باشندہ (باشندہ) [ف] - [ذ] [ساکن] رہنے والا - بسنے والا۔

باشندہ (باشندہ) [ف] - [ذ] [ساکن] رہنے والا - بسنے والا۔

باشندہ (باشندہ) [ف] - [ذ] [ساکن] رہنے والا - بسنے والا۔

بازی کرنا ۱۱۱ نٹوں کا قلا بازیوں کھانا ۱۲۱ کبوتروں کا کھیلنا اور پلٹیاں
کھانا۔ کسی چیز سے کھیلنا۔

بازی کھانا (مجاورہ) مات ہونا۔ شکست کھانا۔ ہارنا (۲) کبوتر کا پلٹیاں

کھانا ۱۲۱ فریب کھانا (۲) نٹوں کا قلا بازیوں کھانا۔

بازی کھیلنا (مجاورہ) آتاش - گنجف اور شطرنج کھیلنا

بازی گاہ - کھیلنے کی جگہ - کھیل کا میدان۔

بازی کر - تماشا دکھانے والا۔ شعبہ باز - نٹ۔

بازی (گرن) کرنی - تماشا کرنے والی عورت - نٹنی

بازی گری ۱۱۱ شعبہ بازی - چالاک - فریب۔

بازی لگانا (مجاورہ) شرط بدنا۔

بازی لے جانا (مجاورہ) غالب آجانا۔ فتح پانا جیت جانا۔

بازی ہاتھ (آنا) رہنا (مجاورہ) کامیاب ہونا۔ جیت جانا۔ ہار جانا

بازی (ہارنا) ہرنا۔ شرط میں مغلوب ہونا۔ کھیل میں مغلوب ہونا۔ کھیل کرنا

بازی کر (بازی) [ف] - [ذ] [کھیل] - تماشا کھلنا۔

بازی (بازی) [ف] - [ذ] [کھیل] - تماشا کھلنا۔

بازی (بازی) [ف] - [ذ] [کھیل] - تماشا کھلنا۔

باشندہ (باشندہ) [ف] - [ذ] [ساکن] رہنے والا - بسنے والا۔

باشندہ (باشندہ) [ف] - [ذ] [ساکن] رہنے والا - بسنے والا۔

باشندہ (باشندہ) [ف] - [ذ] [ساکن] رہنے والا - بسنے والا۔

باشندہ (باشندہ) [ف] - [ذ] [ساکن] رہنے والا - بسنے والا۔

باشندہ (باشندہ) [ف] - [ذ] [ساکن] رہنے والا - بسنے والا۔

باشندہ (باشندہ) [ف] - [ذ] [ساکن] رہنے والا - بسنے والا۔

باشندہ (باشندہ) [ف] - [ذ] [ساکن] رہنے والا - بسنے والا۔

باشندہ (باشندہ) [ف] - [ذ] [ساکن] رہنے والا - بسنے والا۔

باشندہ (باشندہ) [ف] - [ذ] [ساکن] رہنے والا - بسنے والا۔

باشندہ (باشندہ) [ف] - [ذ] [ساکن] رہنے والا - بسنے والا۔

باشندہ (باشندہ) [ف] - [ذ] [ساکن] رہنے والا - بسنے والا۔

باشندہ (باشندہ) [ف] - [ذ] [ساکن] رہنے والا - بسنے والا۔

باشندہ (باشندہ) [ف] - [ذ] [ساکن] رہنے والا - بسنے والا۔

باشندہ (باشندہ) [ف] - [ذ] [ساکن] رہنے والا - بسنے والا۔

باشندہ (باشندہ) [ف] - [ذ] [ساکن] رہنے والا - بسنے والا۔

باشندہ (باشندہ) [ف] - [ذ] [ساکن] رہنے والا - بسنے والا۔

باشندہ (باشندہ) [ف] - [ذ] [ساکن] رہنے والا - بسنے والا۔

باشندہ (باشندہ) [ف] - [ذ] [ساکن] رہنے والا - بسنے والا۔

باشندہ (باشندہ) [ف] - [ذ] [ساکن] رہنے والا - بسنے والا۔

باشندہ (باشندہ) [ف] - [ذ] [ساکن] رہنے والا - بسنے والا۔

باشندہ (باشندہ) [ف] - [ذ] [ساکن] رہنے والا - بسنے والا۔

باشندہ (باشندہ) [ف] - [ذ] [ساکن] رہنے والا - بسنے والا۔

بارغ بارغ ہونا۔ بہت خوش ہونا۔ خوشی میں پھوٹے نہ سماں۔
 باغبان۔ مالی۔ بارغ کا محافظ۔ بارغ میں پودے وغیرہ لگانے والا۔
 باغیانی (۱) بارغ کی حفاظت، ۱۲۱ مالی کا عہدہ (۳) وہ فن جس میں
 درختوں کے متعلق تعلیم دی جاتی ہے۔
 بارغ پیر۔ مالی۔ بارغ کو کاٹ پھنٹ کے آراستہ کرنے والا۔
 بارغ خشک (سلیج) دیکھیے بارغ ابراہیم۔
 بارغ رضوان۔ جنت۔ بہشت۔
 بارغ شہداد (سلیج) بارغ ارم جو شہداد نے بنائی مگر جس کے دروازے
 پر قدم رکھتے ہی وہ مر گیا تھا۔
 بارغ قالی۔ بارغ قالین (۱) وہ بیل بوٹے جو قالین پر بٹے ہوئے ہوتے
 ہیں (۲) نمائی۔ خیالی۔
 بارغ قدس۔ بہشت۔ جنت۔
 بارغ لگانا (۱) درخت لگانا (۲) [مجازاً] اچھے اچھے رنگین مضامین
 جمع کرنا۔ (۳) رونق دینا۔
 بارغ لگانے میں۔ منگتوں نے ڈبرے ڈال دیے [مثل نفل کی
 نہیں۔ مانگنے والے پہلے ہی آدھکے کام بنا نہیں فقیر پہلے ہی خیرات
 لینے کے لیے آگئے ہیں۔
 بارغ والا۔ بارغ کا مالک۔
 بارغ وہار (۱) آراستہ۔ سجا ہوا۔ بارونق (۲) [مجازاً] ہنس مکھ۔
 ظریف طبع۔ محرش مزاج۔ (۳) اردو دوشری ایک مشہور کتاب کا
 نام۔ جو میرامن دہلوی کی تالیف کردہ ہے اقصہ چہار درویش۔
 باغات (با۔ فات) (ف ۱۰۔ مذ) بارغ کی جمع۔ عربی قاعدے سے۔ باغیا
 یا غائی (با۔ غائی) (ف۔ صف) [بارغ کا۔ بارغ سے متعلق۔
 باغیچہ۔ باغیچہ (بارغ۔ چہ، باغی۔ چہ) (ف ۱۰۔ مذ) بارغ کی تصغیر
 چھوٹا سا بارغ۔ چمن۔
 باغی (با۔ غی) (رغ۔ صف) و۔ مذ (۱) بغاوت کرنے والا (۲) ناقرآن
 سرکش (۳) مخالف۔ مخوف۔ پھرا ہوا۔ برگشتہ۔
 باغی ہونا (۱) پھر جانا۔ سرکشی اختیار کرنا۔ بغاوت کرنا (۲) حکومت
 کے مخالف ہوجانا۔
 باغ (ف۔ صف) بننے والا مرکبات میں مستعمل ہے جیسے زرباغ۔
 پارچہ باغ۔
 بانٹ (ف ۱۰۔ مذ) بنائی۔ بناوٹ (۲) بہت باریک مٹی ہوئی چیز
 (۳) صبیح جسم کی باریک رگیں۔ [بانگ] (Tissue)
 بانفتہ (باغ۔ تہ) (ف۔ صف) (۱) بنا ہوا۔ مرکبات میں مستعمل ہے
 جیسے زربانفتہ (۲) [مذ] ایک قسم کا ریشمی کپڑا (۳) ایک قسم کے
 کپڑوں کا رنگ۔
 بانفتگی (با۔ غین۔ و۔ کی) (ف ۱۰۔ مٹ) [۱] بننے کا کام (۲) بنائی۔
 جولاہے کا پیشہ۔
 بانفتہ (با۔ غین۔ و۔ کی) (ف۔ صف) و۔ مذ [بننے والا۔ کپڑا بننے والا
 جولاہے کا پیشہ۔

باقرا با۔ قر (رغ۔ صف) بہت بڑا عالم۔ صاحب مال۔ شیر۔
 لقب ابو جعفر محمد بن علی بن الحسین
 باقر خانی۔ ایک قسم کی ریشمی چٹائی جو کھن دودھا و میدہ ملا کر تنور
 میں پکا کر بنائی جاتی ہے۔
 باقلا (رغ۔ مذ) مٹر اور لوبیا ایسی پھلیاں جو پکا کر کھائی جاتی ہیں
 باقی (با۔ قی) (رغ۔ صف) [بچا ہوا (۲) واجب الادا۔ واجب الوصول
 ہمیشہ موجود رہنے والا (۳) خداوند تعالیٰ کا ایک صفاتی نام۔ جمع
 باقیات۔
 باقی آنا۔ محاورہ حساب میں جمع سے خرچ مگر کرنے کے بعد رقم باقی نکلنا
 باقی بقیات کرنا (محاورہ) باقی چکانا۔ حساب بقیات کرنا۔ کل رقم ادا کرنا
 باقی پڑنا (محاورہ) مال گزاری کا بقیات نہ ہونا۔ بقایا ذمے رہنا۔
 باقی جمع۔ معللے کی رقم جو گزشتہ سالوں کے معللے میں سے باقی ہو
 باقی وار۔ جس پر کوئی مطالبہ باقی ہو۔
 باقی دراز (ف) باقی پھر سہی۔ ابھی باقی ہے۔ باقی آئندہ
 باقی غیر ممکن الوصول (صف) اور بقایا جس کا وصول کرنا غیر ممکن ہو۔
 باقی ماندہ۔ باقی بچا ہوا۔ باقی رہا ہوا۔
 باقی نام اللہ کا (مثل) خدا کے سوائے کوئی ہمیشہ زندہ رہنے والا نہیں
 اللہ تعالیٰ کے سوا سب کو فنا ہے۔
 باقی نکلنا (محاورہ) حساب میں باقی رقم ظاہر کرنا۔
 باقی نکلنا (محاورہ) مجرائی کے بعد کسی رقم کا واجب الادا رہنا۔ ل
 باقیات (با۔ قی) (بیات) (رغ۔ مٹ) باقی کی جمع (۲) وہ زمین جو وصول
 نہ ہوئی ہوں (۳) بچے ہوئے۔ باقی ماندہ چیزیں یا لوگ۔
 باقیات حساب روان۔ چلتے حساب کا بقایا۔
 باقیات الصالحات (۱) ایسے نیک کام جن کا ثواب ہمیشہ ملتا ہے
 رفاہ عام کیلئے کوئی کام (۲) صدقہ جاریہ (۳) نیک اور صالح اولاد۔
 باک (ف ۱۰۔ مذ) بخوف۔ ڈر۔ اندیشہ۔ درشت۔
 باکرہ (با۔ ک۔ ر) (رغ۔ مٹ) دوشیزہ۔ گنوار لڑکی۔
 باکس (Box) (انگ۔ مذ) [بکس۔ صندوق۔ تختی وغیرہ میں
 علیحدہ نشست گاہ (۳) سنتری یا سنکل والے کی کانٹھ کو کھڑکی۔
 باکس آفس۔ (Box Office) تختی کا ٹکٹ گھر
 باکسر (Boxer) (باک۔ سر) [انگ۔ مذ] ٹکٹ باز
 باکسنگ (Boxing) (باک۔ سٹ) [انگ۔ مٹ] ٹکٹ بازی
 (کھیل)
 باکلی (باک۔ لی) (مٹ) [انگ۔ مذ] گھنگنی، اٹلا ہوا اناج۔
 باکھ (۱۰۔ مذ) گائے۔ بھینس بکری وغیرہ کے نغٹوں کا اوپر کا حصہ
 ہونا۔ کھیری۔ بین۔ شیردان
 باکھڑی (باکھڑی) (باکھ۔ ٹری) باکھ۔ لی (۱۰۔ مٹ) [۱] گائے بھینس
 بکری وغیرہ جو صرف پانچ مہینے دودھ دے کر رک جلتے۔
 باکھل (باکھل) (انگ۔ مذ) [مٹ] موٹلیوں کا باڑا۔ احاطہ۔
 باگ (۱۰۔ مٹ) [انگ۔ مٹ] راس۔ عنان۔

بجڑے باک (۳) مو۔ نڈاں۔ روٹنگ (۴) وہ خط جو کسی صدمے سے
 شینے یا چینی میں پڑ جاتا ہے۔ بہت باریک شکاف یا دراڑ (۵) مصری کھانا
 بال آتا (مجاورہ ۱۱) شکاف پڑ جانا۔ شینے یا چینی میں خط پڑنا۔ دراڑ
 پڑنا (۲) خوشہ نکھنا (۳) بدن پر بال اگنا۔
 بال اترنا (مجاورہ ۱۱) بال گرنا (۲) بال مونڈے جانا۔ مونڈن ہونا۔
 بال بال (۱) ہر ایک بال (۲) ذرا ذرا۔ بالکل (۳) مو مو۔ صاف صاف۔
 بال بال بچنا (مجاورہ) حادثے کی لپیٹ میں آتے آتے بچنا۔ ذرا آگ
 نہ پہنچنا۔
 بال بال بڑھنا (بجڑے) (مجاورہ) بہت تری طرح کھینٹنا۔ بہت زیادہ مقروض
 بال بال (دشمن ہونا) (مجاورہ) ہرکس و نکس کا دشمن ہو جانا۔ تمام زلنے
 کا دشمن ہو جانا۔
 بال بال بچ مونی پرونا۔ بال بال مونی پرونا (مجاورہ) ہر بال میں مونی
 پرونا۔ خوب آراستہ و پیراستہ ہونا۔
 بال بال گناہ گار ہونا (مجاورہ) سزتا یا گناہ گار ہونا۔ بہت زیادہ گناہ گار
 بال بال میں مونی ہونا (مجاورہ) انتہائی درجہ کا آراستہ ہونا۔
 بال باندھنا (مجاورہ) غلاموں کی مانند (۲) بے عذر فرما بنوار تابع و مطیع
 بال باندھا چور (مجاورہ) پھرا چور۔ مشتاقی چور۔
 بال باندھا غلام۔ نہایت تابع اور فرمانبردار غلام یا شاہے پرکا کر کو نوا
 بال باندھی (کوڑھی) نشانہ اڑانا (مجاورہ) تیر ہمدت۔ نشانہ لگانا۔
 ٹھیک نشانہ لگانا (۲) ایسی اعتیاد طے کام کرنا کہ خطانہ ہو۔
 بال بچوں والی۔ اولاد والی عورت۔ ماما۔ (۲) (مجاورہ) بچیک۔
 بال بچکے۔ بیوی بچکے اہل و عیال۔
 بال بندھو (۱)۔ منٹ) لڑکپن کی عقل۔ تاجر بہ کاری۔ بچوں کی سی سمجھ۔
 بال بندھو (۲)۔ منٹ] نو عمر بچہ۔ بچپن کی راند۔
 بال برابر (صفت) ذرا سا ٹھوڑا سا نہایت قلیل (۲) نہ ہونے کے برابر خفیف۔
 بال برابر فرق نہ ہونا (مجاورہ) ایک جیسا ہونا۔ معمولی سا فرق بھی نہ ہونا
 بال برابر لگی نہ رکھنا (مجاورہ) ذرا کوتاہی نہ کرنا۔ کوئی کسر اٹھانے نہ رکھنا۔
 بال بچھنا (مجاورہ) بالوں کا پریشان ہونا۔ (۲) [کنایت] پریشان ہونا۔
 بال بٹاننا (مجاورہ) چوٹی ٹوٹنا۔ لکھی کرنا۔ مانگ چوٹی پڑنا۔ (۲) حجاب
 بتانا۔ خط بتانا۔
 بال بھر (۱)۔ صفت) ذرا سا خفیف۔
 بال بھڑکری (۱)۔ منٹ] کھوڑے کا ایک نقص جس میں بالوں کی ایک
 خاص شکل بن جاتی ہے۔
 بال بیکانہ ہونا (مجاورہ) ذرا صدمہ نہ پہنچنا۔ آسج نہ آنا۔
 بال پکنا۔ (مجاورہ) بال سفید ہونا بڑھاپا آنا۔ (۲) خوشے کا پختہ ہونا۔
 بال ٹوڑ (۱)۔ منڈ] پھوٹا جو جسم کے بال ٹوٹنے سے ہو جاتا ہے۔
 بال جھجال، بال سنگار (مثیل) بال کلیف کا باعث بھی ہیں اور خصوصاً
 کا موجب بھی۔
 بال جھجال پہلے تو بال نہیں تو موچھوں کو مثال (مثیل) بالوں کو بھی
 طرح دیکھ سکتے ہو تو رکھو ورنہ منڈا و د۔

باگ اٹھانا (مجاورہ ۱) باگ ہاتھ میں لینا (۲) کنایت] کھوڑا اور ڈانا
 روانہ ہونا۔ چیل پڑنا۔
 باگ پکڑنی۔ ایک غیر اسلامی رسم جب دو لہا کھوڑے پر سوار ہوتا
 ہے تو ہاتھیں باگ پکڑ کر دو لہا بھائی سے کچھ روپے لیتی ہیں جسے
 ننگ کہا جاتا ہے۔
 باگ پھوڑ دینا (۱) کھوڑے کو اس کی مرضی پر جانے دینا (۲) [مجاورہ]
 آزاد کر دینا۔ لکھانی اٹھانا۔
 باگ ڈال دینا۔ باگ پھوڑ دینا۔
 باگ ڈور۔ وہ رسی جو سائیس کھوڑے کی رگام میں ڈال کر اپنے ہاتھ
 میں رکھتا ہے۔ کسی کام کے کرنے کا اختیار۔
 باگ ڈھیلی (پھوڑنا) کرنا (۱) باگ کو ڈھیلیا پھوڑ دینا تاکہ گھوڑا اپنی
 مرضی کے مطابق چلے (مجاورہ) کسی شخص کو آزاد پھوڑ دینا (۲) تنبیہ نہ کرنا۔ توجہ نہ کرنا
 باگ روکنا (۱) کھوڑا ٹھہرانے کے لیے رگام کھینچنا۔ (۲) مجازاً زیادہ
 باتیں کرنے سے روکنا۔ تنبیہ کرنا۔
 باگ سنبھالنا۔ سوار کا چلنے پر مستعد ہونا۔
 باگ کھینچنا (مجاورہ) باگ روکنا۔ کھوڑا ٹھہرانا۔
 باگ لینا (مجاورہ) دیکھنے باگ اٹھانا۔
 باگ موڑنا (مجاورہ) کھوڑے کا رخ دوسری طرف ہو جانا (۲) [مجاورہ]
 توجہ کا دوسری طرف پھیرنا (۳) بچیک کا مچھاننا۔
 باگ موڑنا (مجاورہ) کھوڑے کا رخ پھیرنا (۲) کھوڑے کو موڑنا۔
 (۳) مجازاً توجہ دوسری طرف کرنا۔
 باگ ہاتھ سے پھوڑنا (مجاورہ) بے قابو ہو جانا۔ بے اختیار ہو جانا
 موقع ہاتھ سے جاتا رہنا۔
 باگ ہاتھ سے پھوڑنا (مجاورہ) رگام کو ڈھیلیا کر دینا (۲) [مجاورہ]
 انتظام سے بے پروائی کرنا (۳) تنبیہ موقوف کر دینا۔ نگہبانی ترک کر دینا
 باگا (با۔ گا) [۱-۵-۱۰] منڈ] دو لہا کا جوڑا (۲) پوشاک خلعت (اردو
 میں یہ لفظ جوڑے کے ساتھ مستعمل ہے۔ جوڑے باگے)
 بلاگر (یا۔ گرٹ) [۱-۵-۱۰] منڈ] ہرنوں کا گلہ
 بلاگر بلا۔ بلاگر بلا۔ وہ پستلا جو گوزروں کو ڈرانے کے لیے کھینٹوں میں
 رکھ کر دیتے ہیں اور میں بچوں کو اس نام سے ڈراتی ہیں ایک قسم کا بلا۔
 بلاگر (۱-۵-۱۰) منڈ] شیر۔ بنگلہ۔ جینٹل۔
 بلاگر بگرمی۔ رگاموں کا ایک کھیل۔
 بلاگر بگرمی ایک کھٹا مانی پھینے ہیں۔ منٹ] چھوٹے بڑے
 دونوں کے ساتھ کسان سلوک کیا جانتے ہیں انصاف اور امن۔ امان
 کے اظہار کے لیے کہتے ہیں۔ بلاگر کا پھٹا چھینے کا بچہ۔
 باگھن۔ باگھنی (با۔ گھن)۔ بلاگر (نی۔ ۱-۵-۱۰) منٹ] [۱] پھینے کی مادہ۔ تیرنی
 باگھی (با۔ گھی) [۱-۵-۱۰] منٹ] وہ درہ جو کسی زخم یا سوزاک کی وجہ
 سے چوڑوں پر پڑ جاتی ہے۔
 باگیسری (با۔ گیسری) [۱-۵-۱۰] منٹ] ایک رگنی۔
 بال (س۔ ۱-۵) منٹ] جوار باجرا یا گیسوں وغیرہ کا خوشہ۔ بالی (۲) [منڈ]

بال جھڑ ۱۱۔ مذ) ایک خوشبودار گھاس جو بظہر دو استعمال ہوتی ہے
سنبل الطیب۔
بال خورہ۔ ایک مرض کا نام جس سے بدن کے بال جھڑ جاتے ہیں۔
بال رکھنا (مجاورہ) بال بڑھانا۔
بال دھوب میں سفید کرنا (مجاورہ) بوڑھا ہو جانے پر بھی ناخبر کرنا
بال ٹالنا (مجاورہ) خط ڈالنا۔ نشان ڈالنا۔
بال سے باریک (۱۔ صف) بہت مہین۔ بہت ڈبلا۔ نہایت لاغر
بال صفا۔ بال اڑنے والی دوا۔
بال کا مکمل بنانا۔ بال کی بھیر بنانا (مجاورہ) پھوٹی ٹات کو بڑا کر کے
دکھانا۔ بات کا تکرار کرنا۔
بال کترنے سے مردہ ہلکا نہیں ہوتا (مشیل) بڑے ذخیرے میں سے
تھوڑا نکال لینے سے کوئی سوز نہیں ہوتا۔ ۲۱ بڑی مصیبت یا
سہاری میں تھوڑا سا افتاد بھی ہو جائے تو کوئی سوز نہیں ہوتا۔
بال گمانی۔ کھڑکی کے اندر کی وہ گمانی جو نہایت ہی باریک ہوتی
ہے۔ چھوٹا سا سپرنک۔
بال کھڑکی ہونا (مجاورہ) سیاہ بالوں میں سفید بالوں کا آجانا۔
بال کھڑکے ہونا (مجاورہ) روکنے کھڑے ہونا۔ خوف لگنا۔ ڈر معلوم ہونا
بال کی کھال نکالنا (۱۱) بہت باریکی نکالنا۔ نکتہ چینی کرنا۔ نقص ٹھونڈنا
بال گویا (۱۱) لڑکے بلے۔ بال بچے (۲) چیلے جانتے۔ مرید
بال لینا۔ استرو لینا۔ موٹے نہ ہار کا مونڈنا۔ پانگی لینا۔
بال ہنتیا (۱۱) بچوں کا قتل۔ (۲) حمل کرانا۔
بال ہمت۔ بچوں کی ضد۔
بال (۱۱) پرندوں کے بازو۔ (۲) پر
بال و برنگالنا (۱۱) اڑنے لگنا۔ اڑان بھرنا۔ پرواز کرنا (۲) نہارت کرنا
پر پر ڈرے نکالنا۔ چالاکی کرنا۔ بد معاشی کرنا۔ (۳۱) مخالفت کرنا۔
مقلبے پر آنا۔
بال و برنگلنا۔ (۱۱) اڑنے کے قابل ہونا۔ ہوش سنبھالنا (۲) تشریح
ہونا۔ فتنہ انگیز ہونا۔
بال (Ball) (۱) ایک۔ (۲) مٹا۔ (۳) گیند (۴) گیند (۵) گیند (۶) گیند کا
گولہ (۷) گولی (۸) بندوق وغیرہ کی مجلس رقص
بال برنگ (Ball-Bearings) وہ دھرا جس میں رگڑ
گرتے گرتے گولیاں لگادی جاتی ہیں۔
بال روم (Ball Room) ناچ کھر۔
بالا (بالا) (۱)۔ (۲)۔ (۳)۔ (۴)۔ (۵)۔ (۶)۔ (۷)۔ (۸)۔ (۹)۔ (۱۰)۔ (۱۱)۔ (۱۲)۔ (۱۳)۔ (۱۴)۔ (۱۵)۔ (۱۶)۔ (۱۷)۔ (۱۸)۔ (۱۹)۔ (۲۰)۔ (۲۱)۔ (۲۲)۔ (۲۳)۔ (۲۴)۔ (۲۵)۔ (۲۶)۔ (۲۷)۔ (۲۸)۔ (۲۹)۔ (۳۰)۔ (۳۱)۔ (۳۲)۔ (۳۳)۔ (۳۴)۔ (۳۵)۔ (۳۶)۔ (۳۷)۔ (۳۸)۔ (۳۹)۔ (۴۰)۔ (۴۱)۔ (۴۲)۔ (۴۳)۔ (۴۴)۔ (۴۵)۔ (۴۶)۔ (۴۷)۔ (۴۸)۔ (۴۹)۔ (۵۰)۔ (۵۱)۔ (۵۲)۔ (۵۳)۔ (۵۴)۔ (۵۵)۔ (۵۶)۔ (۵۷)۔ (۵۸)۔ (۵۹)۔ (۶۰)۔ (۶۱)۔ (۶۲)۔ (۶۳)۔ (۶۴)۔ (۶۵)۔ (۶۶)۔ (۶۷)۔ (۶۸)۔ (۶۹)۔ (۷۰)۔ (۷۱)۔ (۷۲)۔ (۷۳)۔ (۷۴)۔ (۷۵)۔ (۷۶)۔ (۷۷)۔ (۷۸)۔ (۷۹)۔ (۸۰)۔ (۸۱)۔ (۸۲)۔ (۸۳)۔ (۸۴)۔ (۸۵)۔ (۸۶)۔ (۸۷)۔ (۸۸)۔ (۸۹)۔ (۹۰)۔ (۹۱)۔ (۹۲)۔ (۹۳)۔ (۹۴)۔ (۹۵)۔ (۹۶)۔ (۹۷)۔ (۹۸)۔ (۹۹)۔ (۱۰۰)۔ (۱۰۱)۔ (۱۰۲)۔ (۱۰۳)۔ (۱۰۴)۔ (۱۰۵)۔ (۱۰۶)۔ (۱۰۷)۔ (۱۰۸)۔ (۱۰۹)۔ (۱۱۰)۔ (۱۱۱)۔ (۱۱۲)۔ (۱۱۳)۔ (۱۱۴)۔ (۱۱۵)۔ (۱۱۶)۔ (۱۱۷)۔ (۱۱۸)۔ (۱۱۹)۔ (۱۲۰)۔ (۱۲۱)۔ (۱۲۲)۔ (۱۲۳)۔ (۱۲۴)۔ (۱۲۵)۔ (۱۲۶)۔ (۱۲۷)۔ (۱۲۸)۔ (۱۲۹)۔ (۱۳۰)۔ (۱۳۱)۔ (۱۳۲)۔ (۱۳۳)۔ (۱۳۴)۔ (۱۳۵)۔ (۱۳۶)۔ (۱۳۷)۔ (۱۳۸)۔ (۱۳۹)۔ (۱۴۰)۔ (۱۴۱)۔ (۱۴۲)۔ (۱۴۳)۔ (۱۴۴)۔ (۱۴۵)۔ (۱۴۶)۔ (۱۴۷)۔ (۱۴۸)۔ (۱۴۹)۔ (۱۵۰)۔ (۱۵۱)۔ (۱۵۲)۔ (۱۵۳)۔ (۱۵۴)۔ (۱۵۵)۔ (۱۵۶)۔ (۱۵۷)۔ (۱۵۸)۔ (۱۵۹)۔ (۱۶۰)۔ (۱۶۱)۔ (۱۶۲)۔ (۱۶۳)۔ (۱۶۴)۔ (۱۶۵)۔ (۱۶۶)۔ (۱۶۷)۔ (۱۶۸)۔ (۱۶۹)۔ (۱۷۰)۔ (۱۷۱)۔ (۱۷۲)۔ (۱۷۳)۔ (۱۷۴)۔ (۱۷۵)۔ (۱۷۶)۔ (۱۷۷)۔ (۱۷۸)۔ (۱۷۹)۔ (۱۸۰)۔ (۱۸۱)۔ (۱۸۲)۔ (۱۸۳)۔ (۱۸۴)۔ (۱۸۵)۔ (۱۸۶)۔ (۱۸۷)۔ (۱۸۸)۔ (۱۸۹)۔ (۱۹۰)۔ (۱۹۱)۔ (۱۹۲)۔ (۱۹۳)۔ (۱۹۴)۔ (۱۹۵)۔ (۱۹۶)۔ (۱۹۷)۔ (۱۹۸)۔ (۱۹۹)۔ (۲۰۰)۔ (۲۰۱)۔ (۲۰۲)۔ (۲۰۳)۔ (۲۰۴)۔ (۲۰۵)۔ (۲۰۶)۔ (۲۰۷)۔ (۲۰۸)۔ (۲۰۹)۔ (۲۱۰)۔ (۲۱۱)۔ (۲۱۲)۔ (۲۱۳)۔ (۲۱۴)۔ (۲۱۵)۔ (۲۱۶)۔ (۲۱۷)۔ (۲۱۸)۔ (۲۱۹)۔ (۲۲۰)۔ (۲۲۱)۔ (۲۲۲)۔ (۲۲۳)۔ (۲۲۴)۔ (۲۲۵)۔ (۲۲۶)۔ (۲۲۷)۔ (۲۲۸)۔ (۲۲۹)۔ (۲۳۰)۔ (۲۳۱)۔ (۲۳۲)۔ (۲۳۳)۔ (۲۳۴)۔ (۲۳۵)۔ (۲۳۶)۔ (۲۳۷)۔ (۲۳۸)۔ (۲۳۹)۔ (۲۴۰)۔ (۲۴۱)۔ (۲۴۲)۔ (۲۴۳)۔ (۲۴۴)۔ (۲۴۵)۔ (۲۴۶)۔ (۲۴۷)۔ (۲۴۸)۔ (۲۴۹)۔ (۲۵۰)۔ (۲۵۱)۔ (۲۵۲)۔ (۲۵۳)۔ (۲۵۴)۔ (۲۵۵)۔ (۲۵۶)۔ (۲۵۷)۔ (۲۵۸)۔ (۲۵۹)۔ (۲۶۰)۔ (۲۶۱)۔ (۲۶۲)۔ (۲۶۳)۔ (۲۶۴)۔ (۲۶۵)۔ (۲۶۶)۔ (۲۶۷)۔ (۲۶۸)۔ (۲۶۹)۔ (۲۷۰)۔ (۲۷۱)۔ (۲۷۲)۔ (۲۷۳)۔ (۲۷۴)۔ (۲۷۵)۔ (۲۷۶)۔ (۲۷۷)۔ (۲۷۸)۔ (۲۷۹)۔ (۲۸۰)۔ (۲۸۱)۔ (۲۸۲)۔ (۲۸۳)۔ (۲۸۴)۔ (۲۸۵)۔ (۲۸۶)۔ (۲۸۷)۔ (۲۸۸)۔ (۲۸۹)۔ (۲۹۰)۔ (۲۹۱)۔ (۲۹۲)۔ (۲۹۳)۔ (۲۹۴)۔ (۲۹۵)۔ (۲۹۶)۔ (۲۹۷)۔ (۲۹۸)۔ (۲۹۹)۔ (۳۰۰)۔ (۳۰۱)۔ (۳۰۲)۔ (۳۰۳)۔ (۳۰۴)۔ (۳۰۵)۔ (۳۰۶)۔ (۳۰۷)۔ (۳۰۸)۔ (۳۰۹)۔ (۳۱۰)۔ (۳۱۱)۔ (۳۱۲)۔ (۳۱۳)۔ (۳۱۴)۔ (۳۱۵)۔ (۳۱۶)۔ (۳۱۷)۔ (۳۱۸)۔ (۳۱۹)۔ (۳۲۰)۔ (۳۲۱)۔ (۳۲۲)۔ (۳۲۳)۔ (۳۲۴)۔ (۳۲۵)۔ (۳۲۶)۔ (۳۲۷)۔ (۳۲۸)۔ (۳۲۹)۔ (۳۳۰)۔ (۳۳۱)۔ (۳۳۲)۔ (۳۳۳)۔ (۳۳۴)۔ (۳۳۵)۔ (۳۳۶)۔ (۳۳۷)۔ (۳۳۸)۔ (۳۳۹)۔ (۳۴۰)۔ (۳۴۱)۔ (۳۴۲)۔ (۳۴۳)۔ (۳۴۴)۔ (۳۴۵)۔ (۳۴۶)۔ (۳۴۷)۔ (۳۴۸)۔ (۳۴۹)۔ (۳۵۰)۔ (۳۵۱)۔ (۳۵۲)۔ (۳۵۳)۔ (۳۵۴)۔ (۳۵۵)۔ (۳۵۶)۔ (۳۵۷)۔ (۳۵۸)۔ (۳۵۹)۔ (۳۶۰)۔ (۳۶۱)۔ (۳۶۲)۔ (۳۶۳)۔ (۳۶۴)۔ (۳۶۵)۔ (۳۶۶)۔ (۳۶۷)۔ (۳۶۸)۔ (۳۶۹)۔ (۳۷۰)۔ (۳۷۱)۔ (۳۷۲)۔ (۳۷۳)۔ (۳۷۴)۔ (۳۷۵)۔ (۳۷۶)۔ (۳۷۷)۔ (۳۷۸)۔ (۳۷۹)۔ (۳۸۰)۔ (۳۸۱)۔ (۳۸۲)۔ (۳۸۳)۔ (۳۸۴)۔ (۳۸۵)۔ (۳۸۶)۔ (۳۸۷)۔ (۳۸۸)۔ (۳۸۹)۔ (۳۹۰)۔ (۳۹۱)۔ (۳۹۲)۔ (۳۹۳)۔ (۳۹۴)۔ (۳۹۵)۔ (۳۹۶)۔ (۳۹۷)۔ (۳۹۸)۔ (۳۹۹)۔ (۴۰۰)۔ (۴۰۱)۔ (۴۰۲)۔ (۴۰۳)۔ (۴۰۴)۔ (۴۰۵)۔ (۴۰۶)۔ (۴۰۷)۔ (۴۰۸)۔ (۴۰۹)۔ (۴۱۰)۔ (۴۱۱)۔ (۴۱۲)۔ (۴۱۳)۔ (۴۱۴)۔ (۴۱۵)۔ (۴۱۶)۔ (۴۱۷)۔ (۴۱۸)۔ (۴۱۹)۔ (۴۲۰)۔ (۴۲۱)۔ (۴۲۲)۔ (۴۲۳)۔ (۴۲۴)۔ (۴۲۵)۔ (۴۲۶)۔ (۴۲۷)۔ (۴۲۸)۔ (۴۲۹)۔ (۴۳۰)۔ (۴۳۱)۔ (۴۳۲)۔ (۴۳۳)۔ (۴۳۴)۔ (۴۳۵)۔ (۴۳۶)۔ (۴۳۷)۔ (۴۳۸)۔ (۴۳۹)۔ (۴۴۰)۔ (۴۴۱)۔ (۴۴۲)۔ (۴۴۳)۔ (۴۴۴)۔ (۴۴۵)۔ (۴۴۶)۔ (۴۴۷)۔ (۴۴۸)۔ (۴۴۹)۔ (۴۵۰)۔ (۴۵۱)۔ (۴۵۲)۔ (۴۵۳)۔ (۴۵۴)۔ (۴۵۵)۔ (۴۵۶)۔ (۴۵۷)۔ (۴۵۸)۔ (۴۵۹)۔ (۴۶۰)۔ (۴۶۱)۔ (۴۶۲)۔ (۴۶۳)۔ (۴۶۴)۔ (۴۶۵)۔ (۴۶۶)۔ (۴۶۷)۔ (۴۶۸)۔ (۴۶۹)۔ (۴۷۰)۔ (۴۷۱)۔ (۴۷۲)۔ (۴۷۳)۔ (۴۷۴)۔ (۴۷۵)۔ (۴۷۶)۔ (۴۷۷)۔ (۴۷۸)۔ (۴۷۹)۔ (۴۸۰)۔ (۴۸۱)۔ (۴۸۲)۔ (۴۸۳)۔ (۴۸۴)۔ (۴۸۵)۔ (۴۸۶)۔ (۴۸۷)۔ (۴۸۸)۔ (۴۸۹)۔ (۴۹۰)۔ (۴۹۱)۔ (۴۹۲)۔ (۴۹۳)۔ (۴۹۴)۔ (۴۹۵)۔ (۴۹۶)۔ (۴۹۷)۔ (۴۹۸)۔ (۴۹۹)۔ (۵۰۰)۔ (۵۰۱)۔ (۵۰۲)۔ (۵۰۳)۔ (۵۰۴)۔ (۵۰۵)۔ (۵۰۶)۔ (۵۰۷)۔ (۵۰۸)۔ (۵۰۹)۔ (۵۱۰)۔ (۵۱۱)۔ (۵۱۲)۔ (۵۱۳)۔ (۵۱۴)۔ (۵۱۵)۔ (۵۱۶)۔ (۵۱۷)۔ (۵۱۸)۔ (۵۱۹)۔ (۵۲۰)۔ (۵۲۱)۔ (۵۲۲)۔ (۵۲۳)۔ (۵۲۴)۔ (۵۲۵)۔ (۵۲۶)۔ (۵۲۷)۔ (۵۲۸)۔ (۵۲۹)۔ (۵۳۰)۔ (۵۳۱)۔ (۵۳۲)۔ (۵۳۳)۔ (۵۳۴)۔ (۵۳۵)۔ (۵۳۶)۔ (۵۳۷)۔ (۵۳۸)۔ (۵۳۹)۔ (۵۴۰)۔ (۵۴۱)۔ (۵۴۲)۔ (۵۴۳)۔ (۵۴۴)۔ (۵۴۵)۔ (۵۴۶)۔ (۵۴۷)۔ (۵۴۸)۔ (۵۴۹)۔ (۵۵۰)۔ (۵۵۱)۔ (۵۵۲)۔ (۵۵۳)۔ (۵۵۴)۔ (۵۵۵)۔ (۵۵۶)۔ (۵۵۷)۔ (۵۵۸)۔ (۵۵۹)۔ (۵۶۰)۔ (۵۶۱)۔ (۵۶۲)۔ (۵۶۳)۔ (۵۶۴)۔ (۵۶۵)۔ (۵۶۶)۔ (۵۶۷)۔ (۵۶۸)۔ (۵۶۹)۔ (۵۷۰)۔ (۵۷۱)۔ (۵۷۲)۔ (۵۷۳)۔ (۵۷۴)۔ (۵۷۵)۔ (۵۷۶)۔ (۵۷۷)۔ (۵۷۸)۔ (۵۷۹)۔ (۵۸۰)۔ (۵۸۱)۔ (۵۸۲)۔ (۵۸۳)۔ (۵۸۴)۔ (۵۸۵)۔ (۵۸۶)۔ (۵۸۷)۔ (۵۸۸)۔ (۵۸۹)۔ (۵۹۰)۔ (۵۹۱)۔ (۵۹۲)۔ (۵۹۳)۔ (۵۹۴)۔ (۵۹۵)۔ (۵۹۶)۔ (۵۹۷)۔ (۵۹۸)۔ (۵۹۹)۔ (۶۰۰)۔ (۶۰۱)۔ (۶۰۲)۔ (۶۰۳)۔ (۶۰۴)۔ (۶۰۵)۔ (۶۰۶)۔ (۶۰۷)۔ (۶۰۸)۔ (۶۰۹)۔ (۶۱۰)۔ (۶۱۱)۔ (۶۱۲)۔ (۶۱۳)۔ (۶۱۴)۔ (۶۱۵)۔ (۶۱۶)۔ (۶۱۷)۔ (۶۱۸)۔ (۶۱۹)۔ (۶۲۰)۔ (۶۲۱)۔ (۶۲۲)۔ (۶۲۳)۔ (۶۲۴)۔ (۶۲۵)۔ (۶۲۶)۔ (۶۲۷)۔ (۶۲۸)۔ (۶۲۹)۔ (۶۳۰)۔ (۶۳۱)۔ (۶۳۲)۔ (۶۳۳)۔ (۶۳۴)۔ (۶۳۵)۔ (۶۳۶)۔ (۶۳۷)۔ (۶۳۸)۔ (۶۳۹)۔ (۶۴۰)۔ (۶۴۱)۔ (۶۴۲)۔ (۶۴۳)۔ (۶۴۴)۔ (۶۴۵)۔ (۶۴۶)۔ (۶۴۷)۔ (۶۴۸)۔ (۶۴۹)۔ (۶۵۰)۔ (۶۵۱)۔ (۶۵۲)۔ (۶۵۳)۔ (۶۵۴)۔ (۶۵۵)۔ (۶۵۶)۔ (۶۵۷)۔ (۶۵۸)۔ (۶۵۹)۔ (۶۶۰)۔ (۶۶۱)۔ (۶۶۲)۔ (۶۶۳)۔ (۶۶۴)۔ (۶۶۵)۔ (۶۶۶)۔ (۶۶۷)۔ (۶۶۸)۔ (۶۶۹)۔ (۶۷۰)۔ (۶۷۱)۔ (۶۷۲)۔ (۶۷۳)۔ (۶۷۴)۔ (۶۷۵)۔ (۶۷۶)۔ (۶۷۷)۔ (۶۷۸)۔ (۶۷۹)۔ (۶۸۰)۔ (۶۸۱)۔ (۶۸۲)۔ (۶۸۳)۔ (۶۸۴)۔ (۶۸۵)۔ (۶۸۶)۔ (۶۸۷)۔ (۶۸۸)۔ (۶۸۹)۔ (۶۹۰)۔ (۶۹۱)۔ (۶۹۲)۔ (۶۹۳)۔ (۶۹۴)۔ (۶۹۵)۔ (۶۹۶)۔ (۶۹۷)۔ (۶۹۸)۔ (۶۹۹)۔ (۷۰۰)۔ (۷۰۱)۔ (۷۰۲)۔ (۷۰۳)۔ (۷۰۴)۔ (۷۰۵)۔ (۷۰۶)۔ (۷۰۷)۔ (۷۰۸)۔ (۷۰۹)۔ (۷۱۰)۔ (۷۱۱)۔ (۷۱۲)۔ (۷۱۳)۔ (۷۱۴)۔ (۷۱۵)۔ (۷۱۶)۔ (۷۱۷)۔ (۷۱۸)۔ (۷۱۹)۔ (۷۲۰)۔ (۷۲۱)۔ (۷۲۲)۔ (۷۲۳)۔ (۷۲۴)۔ (۷۲۵)۔ (۷۲۶)۔ (۷۲۷)۔ (۷۲۸)۔ (۷۲۹)۔ (۷۳۰)۔ (۷۳۱)۔ (۷۳۲)۔ (۷۳۳)۔ (۷۳۴)۔ (۷۳۵)۔ (۷۳۶)۔ (۷۳۷)۔ (۷۳۸)۔ (۷۳۹)۔ (۷۴۰)۔ (۷۴۱)۔ (۷۴۲)۔ (۷۴۳)۔ (۷۴۴)۔ (۷۴۵)۔ (۷۴۶)۔ (۷۴۷)۔ (۷۴۸)۔ (۷۴۹)۔ (۷۵۰)۔ (۷۵۱)۔ (۷۵۲)۔ (۷۵۳)۔ (۷۵۴)۔ (۷۵۵)۔ (۷۵۶)۔ (۷۵۷)۔ (۷۵۸)۔ (۷۵۹)۔ (۷۶۰)۔ (۷۶۱)۔ (۷۶۲)۔ (۷۶۳)۔ (۷۶۴)۔ (۷۶۵)۔ (۷۶۶)۔ (۷۶۷)۔ (۷۶۸)۔ (۷۶۹)۔ (۷۷۰)۔ (۷۷۱)۔ (۷۷۲)۔ (۷۷۳)۔ (۷۷۴)۔ (۷۷۵)۔ (۷۷۶)۔ (۷۷۷)۔ (۷۷۸)۔ (۷۷۹)۔ (۷۸۰)۔ (۷۸۱)۔ (۷۸۲)۔ (۷۸۳)۔ (۷۸۴)۔ (۷۸۵)۔ (۷۸۶)۔ (۷۸۷)۔ (۷۸۸)۔ (۷۸۹)۔ (۷۹۰)۔ (۷۹۱)۔ (۷۹۲)۔ (۷۹۳)۔ (۷۹۴)۔ (۷۹۵)۔ (۷۹۶)۔ (۷۹۷)۔ (۷۹۸)۔ (۷۹۹)۔ (۸۰۰)۔ (۸۰۱)۔ (۸۰۲)۔ (۸۰۳)۔ (۸۰۴)۔ (۸۰۵)۔ (۸۰۶)۔ (۸۰۷)۔ (۸۰۸)۔ (۸۰۹)۔ (۸۱۰)۔ (۸۱۱)۔ (۸۱۲)۔ (۸۱۳)۔ (۸۱۴)۔ (۸۱۵)۔ (۸۱۶)۔ (۸۱۷)۔ (۸۱۸)۔ (۸۱۹)۔ (۸۲۰)۔ (۸۲۱)۔ (۸۲۲)۔ (۸۲۳)۔ (۸۲۴)۔ (۸۲۵)۔ (۸۲۶)۔ (۸۲۷)۔ (۸۲۸)۔ (۸۲۹)۔ (۸۳۰)۔ (۸۳۱)۔ (۸۳۲)۔ (۸۳۳)۔ (۸۳۴)۔ (۸۳۵)۔ (۸۳۶)۔ (۸۳۷)۔ (۸۳۸)۔ (۸۳۹)۔ (۸۴۰)۔ (۸۴۱)۔ (۸۴۲)۔ (۸۴۳)۔ (۸۴۴)۔ (۸۴۵)۔ (۸۴۶)۔ (۸۴۷)۔ (۸۴۸)۔ (۸۴۹)۔ (۸۵۰)۔ (۸۵۱)۔ (۸۵۲)۔ (۸۵۳)۔ (۸۵۴)۔ (۸۵۵)۔ (۸۵۶)۔ (۸۵۷)۔ (۸۵۸)۔ (۸۵۹)۔ (۸۶۰)۔ (۸۶۱)۔ (۸۶۲)۔ (۸۶۳)۔ (۸۶۴)۔ (۸۶۵)۔ (۸۶۶)۔ (۸۶۷)۔ (۸۶۸)۔ (۸۶۹)۔ (۸۷۰)۔ (۸۷۱)۔ (۸۷۲)۔ (۸۷۳)۔ (۸۷۴)۔ (۸۷۵)۔ (۸۷۶)۔ (۸۷۷)۔ (۸۷۸)۔ (۸۷۹)۔ (۸۸۰)۔ (۸۸۱)۔ (۸۸۲)۔ (۸۸۳)۔ (۸۸۴)۔ (۸۸۵)۔ (۸۸۶)۔ (۸۸۷)۔ (۸۸۸)۔ (۸۸۹)۔ (۸۹۰)۔ (۸۹۱)۔ (۸۹۲)۔ (۸۹۳)۔ (۸۹۴)۔ (۸۹۵)۔ (۸۹۶)۔ (۸۹۷)۔ (۸۹۸)۔ (۸۹۹)۔ (۹۰۰)۔ (۹۰۱)۔ (۹۰۲)۔ (۹۰۳)۔ (۹۰۴)۔ (۹۰۵)۔ (۹۰۶)۔ (۹۰۷)۔ (۹۰۸)۔ (۹۰۹)۔ (۹۱۰)۔ (۹۱۱)۔ (۹۱۲)۔ (۹۱۳)۔ (۹۱۴)۔ (۹۱۵)۔ (۹۱۶)۔ (۹۱۷)۔ (۹۱۸)۔ (۹۱۹)۔ (۹۲۰)۔ (۹۲۱)۔ (۹۲۲)۔ (۹۲۳)۔ (۹۲۴)۔ (۹۲۵)۔ (۹۲۶)۔ (۹۲۷)۔ (۹۲۸)۔ (۹۲۹)۔ (۹۳۰)۔ (۹۳۱)۔ (۹۳۲)۔ (۹۳۳)۔ (۹۳۴)۔ (۹۳۵)۔ (۹۳۶)۔ (۹۳۷)۔ (۹۳۸)۔ (۹۳۹)۔ (۹۴۰)۔ (۹۴۱)۔ (۹۴۲)۔ (۹۴۳)۔ (۹۴۴)۔ (۹۴۵)۔ (۹۴۶)۔ (۹۴۷)۔ (۹۴۸)۔ (۹۴۹)۔ (۹۵۰)۔ (۹۵۱)۔ (۹۵۲)۔ (۹۵۳)۔ (۹۵۴)۔ (۹۵۵)۔ (۹۵۶)۔ (۹۵۷)۔ (۹۵۸)۔ (۹۵۹)۔ (۹۶۰)۔ (۹۶۱)۔ (۹۶۲)۔ (۹۶۳)۔ (۹۶۴)۔ (۹۶۵)۔ (۹۶۶)۔ (۹۶۷)۔ (۹۶۸)۔ (۹۶۹)۔ (۹۷۰)۔ (۹۷۱)۔ (۹۷۲)۔ (۹۷۳)۔ (۹۷۴)۔ (۹۷۵)۔ (۹۷۶)۔ (۹۷۷)۔ (۹۷۸)۔ (۹۷۹)۔ (۹۸۰)۔ (۹۸۱)۔ (۹۸۲)۔ (۹۸۳)۔ (۹۸۴)۔ (۹۸۵)۔ (۹۸۶)۔ (۹۸۷)۔ (۹۸۸)۔ (۹۸۹)۔ (۹۹۰)۔ (۹۹۱)۔ (۹۹۲)۔ (۹۹۳)۔ (۹۹۴)۔ (۹۹۵)۔ (۹۹۶)۔ (۹۹۷)۔ (۹۹۸)۔ (۹۹۹)۔ (۱۰۰۰)۔ (۱۰۰۱)۔ (۱۰۰۲)۔ (۱۰۰۳)۔ (۱۰۰۴)۔ (۱۰۰۵)۔ (۱۰۰۶)۔ (۱۰۰۷)۔ (۱۰۰۸)۔ (۱۰۰۹)۔ (۱۰۱۰)۔ (۱۰۱۱)۔ (۱۰۱۲)۔ (۱۰۱۳)۔ (۱۰۱۴)۔ (۱۰۱۵)۔ (۱۰۱۶)۔ (۱۰۱۷)۔ (۱۰۱۸)۔ (۱۰۱۹)۔ (۱۰۲۰)۔ (۱۰۲۱)۔ (۱۰۲۲)۔ (۱۰۲۳)۔ (۱۰۲۴)۔ (۱۰۲۵)۔ (۱۰۲۶)۔ (۱۰۲۷)۔ (۱۰۲۸)۔ (۱۰۲۹)۔ (۱۰۳۰)۔ (۱۰۳۱)۔ (۱۰۳۲)۔ (۱۰۳۳)۔ (۱۰۳۴)۔ (۱۰۳۵)۔ (۱۰۳۶)۔ (۱۰۳۷)۔ (۱۰۳۸)۔ (۱۰۳۹)۔ (۱۰۴۰)۔ (۱۰۴۱)۔ (۱۰۴۲)۔ (۱۰۴۳)۔ (۱۰۴۴)۔ (۱۰۴۵)۔ (۱۰۴۶)۔ (۱۰۴۷)۔ (۱۰۴۸)۔ (۱۰۴۹)۔ (۱۰۵۰)۔ (۱۰۵۱)۔ (۱۰۵۲)۔ (۱۰۵۳)۔ (۱۰۵۴)۔ (۱۰۵۵)۔ (۱۰۵۶)۔ (۱۰۵۷)۔ (۱۰۵۸)۔ (۱۰۵۹)۔ (۱۰۶۰)۔ (۱۰۶۱)۔ (۱۰۶۲)۔ (۱۰۶۳)۔ (۱۰۶۴)۔ (۱۰۶۵)۔ (۱۰۶۶)۔ (۱۰۶۷)۔ (۱۰۶۸)۔ (۱۰۶۹)۔ (۱۰۷۰)۔ (۱۰۷۱)۔ (۱۰۷۲)۔ (۱۰۷۳)۔ (۱۰۷۴)۔ (۱۰۷۵)۔ (۱۰۷۶)۔ (۱۰۷۷)۔ (۱۰۷۸)۔ (۱۰۷۹)۔ (۱۰۸۰)۔ (۱۰۸۱)۔ (۱۰۸۲)۔ (۱۰۸۳)۔ (۱۰۸۴)۔ (۱۰۸۵)۔ (۱۰۸۶)۔ (۱۰۸۷)۔ (۱۰۸۸)۔ (۱۰۸۹)۔ (۱۰۹۰)۔ (۱۰۹۱)۔ (۱۰۹۲)۔ (۱۰۹۳)۔ (۱۰۹۴)۔ (۱۰۹۵)۔ (۱۰۹۶)۔ (۱۰۹۷)۔ (۱۰۹۸)۔ (۱۰۹۹)۔ (۱۱۰۰)۔ (۱۱۰۱)۔ (۱۱۰۲)۔ (۱۱۰۳)۔ (۱۱۰۴)۔ (۱۱۰۵)۔ (۱۱۰۶)۔ (۱۱۰۷)۔ (۱۱۰۸)۔ (۱۱۰۹)۔ (۱۱۱۰)۔ (۱۱۱۱)۔ (۱۱۱۲)۔ (۱۱۱۳)۔ (۱۱۱۴)۔ (۱۱۱۵)۔ (۱۱۱۶)۔ (۱۱۱۷)۔ (۱۱۱۸)۔ (۱۱۱۹)۔ (۱۱۲۰)۔ (۱۱۲۱)۔ (۱۱۲۲)۔ (۱۱۲۳)۔ (۱۱۲۴)۔ (۱۱۲۵)۔ (۱۱۲۶)۔ (۱۱۲۷)۔ (۱۱۲۸)۔ (۱۱۲۹)۔ (۱۱۳۰)۔ (۱۱۳۱)۔ (۱۱۳۲)۔ (۱۱۳۳)۔ (۱۱۳۴)۔ (۱۱۳۵)۔ (۱۱۳۶)۔ (۱۱۳۷)۔ (۱۱۳۸)۔ (۱۱۳۹)۔ (۱۱۴۰)۔ (۱۱۴۱)۔ (۱۱۴۲)۔ (۱۱۴۳)۔ (۱۱۴۴)۔ (۱۱۴۵)۔ (۱۱۴۶)۔ (۱۱۴۷)۔ (۱۱۴۸)۔ (۱۱۴۹)۔ (۱۱۵۰)۔ (۱۱۵۱)۔ (۱۱۵۲)۔ (۱۱۵۳)۔ (۱۱۵۴)۔ (۱۱۵۵)۔ (۱۱۵۶)۔ (۱۱۵۷)۔ (۱۱۵۸)۔ (۱۱۵۹)۔ (۱۱۶۰)۔ (۱۱۶۱)۔ (۱۱۶۲)۔ (۱۱۶۳)۔ (۱۱۶۴)۔ (۱۱۶۵)۔ (۱۱۶۶)۔ (۱۱۶۷)۔ (۱۱۶۸)۔ (۱۱۶۹)۔ (۱۱۷۰)۔ (۱۱۷۱)۔ (۱۱۷۲)۔ (۱۱۷۳)۔ (۱۱۷۴)۔ (۱۱۷۵)۔ (۱۱۷۶)۔ (۱۱۷۷)۔ (۱۱۷۸)۔ (۱۱۷۹)۔ (۱۱۸۰)۔ (۱۱۸۱)۔ (۱۱۸۲)۔ (۱۱۸۳)۔ (۱۱۸۴)۔ (۱۱۸۵)۔ (۱۱۸۶)۔ (۱۱۸۷)۔ (۱۱۸۸)۔ (۱۱۸۹)۔ (۱۱۹۰)۔ (۱۱۹۱)۔ (۱۱۹۲)۔ (۱۱۹۳)۔ (۱۱۹۴)۔ (۱۱۹۵)۔ (۱۱۹۶)۔ (۱۱۹۷)۔ (۱۱۹۸)۔ (۱۱۹۹)۔ (۱۲۰۰)۔ (۱۲۰۱)۔ (۱۲۰۲)۔ (۱۲۰۳)۔ (۱۲۰۴)۔ (۱۲۰۵)۔ (۱۲۰۶)۔ (۱۲۰۷)۔ (۱۲۰۸)۔ (۱۲۰۹)۔ (۱۲۱۰)۔ (۱۲۱۱)۔ (۱۲۱۲)۔ (۱۲۱۳)۔ (۱۲۱۴)۔ (۱۲۱۵)۔ (۱۲۱۶)۔ (۱۲۱۷)۔ (۱۲۱۸)۔ (۱۲۱۹)۔ (۱۲۲۰)۔ (۱۲۲۱)۔ (۱۲۲۲)۔ (۱۲۲۳)۔ (۱۲۲۴)۔ (۱۲۲۵)۔ (۱۲۲۶)۔ (۱۲۲۷)۔ (۱۲۲۸)۔ (۱۲۲۹)۔ (۱۲۳۰)۔ (۱۲۳۱)۔ (۱۲۳۲)۔ (۱۲۳۳)۔ (۱۲۳۴)۔ (۱۲۳۵)۔ (۱۲۳۶)۔ (۱۲۳۷)۔ (۱۲

پیدا ہو کر انہیں تباہ کر دیتی ہے آگاس میل
باندھنا (۱-۵)۔ مٹا (۱) بند۔ روک (۲) قید (۳) پبشہ۔ بند۔
باندھ رہے ہوئے تو مٹنگ کی لکڑی، میری پٹی کاتے تو
لکڑی مثل اپنی نہایت معمولی چیز کی بے حد تعریف کر کے اسے
ٹھکانے لگانا۔

باندھ رکھنا (معاورہ) قید کر کے رکھنا۔ زبردستی روک رکھنا۔
باندھنا (باندھ۔ نا) [۱] مٹا (۲) بندش کرنا۔ کسنا (۳) گرا لگانا (۳)
لگانا (۴) پبشہ۔ تہ کرنا (۵) مقرر کرنا۔ ٹھہرانا۔ بشرط لگانا (۶) الزام
لگانا۔ پکڑنا۔ گرفتار کرنا (۷) ٹرھونا۔ باطل کرنا (۸) عقد کرنا۔ نکاح کرنا
یا بند کرنا (۹) بال گوندھنا (۱۰) لگانا۔ زسے ڈالنا (۱۱) چوٹ لگانا (۱۲)
لکھنا۔ بیان کرنا (۱۳) جمانا۔ بھٹانا (۱۴) تجویز کرنا (۱۵) گھیرنا۔ احاطہ
کرنا (۱۶) تشبیہ دینا۔ نظیر دینا۔

باندھنا (باندھ۔ نو) [۱-۵]۔ بندش کی گرہیں جو اکثر رنگ برنگ
مختلف رنگوں کے بے ڈورے سے باندھتے ہیں (۶) آہمت۔
ہتھان۔ الزام (۱۳) ارادہ۔ قصد (۱۴) خیال۔ تصور۔

باندی (بان۔ دی) [۱-۵]۔ مٹا [۱] لوندی۔ کینیز۔ چھو کری۔
باندی بھتی سو سوئی، ہوئی اور ہوئی بھتی سو باندی ہوئی (مثل)
نوکرانی مالک کے منہ لگ کر رانی بنی اور بیوی کی اس کے سامنے
کچھ پیش نہ پٹی اسے مثل اس وقت ہی جاتی ہے جب نوکر، مالک
کی نگاہ میں عزت پا کر گھڑاؤں سے زیادہ مقرر ہو جائے۔
باندی کے آگے باندی مہینہ کرنے نہ آندی (مثل) کہینے دولت مند
یا حاکم نوکروں کی قدر نہیں کرتے۔ کہینے لوگوں کی خدمت مہینہ ہے
باند (Bond) (بانگ۔ ۱-۵) [۱] معاہدہ۔ اقرار نامہ (۲) بندش۔
دستاویز۔

باند (بان۔ ڈا) [۱-۵]۔ صف۔ وا۔ مذ [۱] ٹیڑھی ٹانگوں والا (۲) کبڑا
ڈم کٹا ساپ۔

باندی (بان۔ ڈی) [۱-۵]۔ مذ [۱] ہاتھ کی لکڑی۔ چھڑی۔ سوئی (۲)
ایک قسم کا لباس۔

باندی باز (۱) باندی سے بڑے والا۔ لٹھ باز (۲) فساد ہی بھگتا لو۔
باندی چلنا۔ مار کٹنی ہونا۔ لڑائی ہونا۔ لاٹھی چلنا۔

بانس (۱-۵)۔ مذ [۱] ایک لمبا اور پتلا گروہ دار درخت جو اندر سے کھوکھلا
ہوتا ہے (۲) اس کی لکڑی (۳) سواتین گز کا پیمانہ جس سے کھیتوں
کو ناپتے ہیں۔

بانس سر پٹھانا (۱) بدنام کرنا۔ رسوا کرنا (۲) تعریف کرنا۔ مشہور کرنا
بانس پڑھنا۔ رسوا ہونا۔ بدنام ہونا۔

بانس پر پٹھے لکھائے۔ جو شخص بے حیائی اختیار کرے، وہ
مڑے میں رہتا ہے۔

بانس واڑی۔ بانسوں کا جنگل
بانسوں اچھلنا (کودنا) [۱] غصے یا خوشی کی حالت میں کودنا۔ (۲)
خوشی منانا۔

بانسوں پانی ہونا۔ دریا وغیرہ کا اٹھنا ہونا۔
بانسا (بان۔ سا) [۱-۵]۔ مذ [۱] دونوں ٹخنوں کے بیچ کی ہڈی (۲)
ریڑھ کی ہڈی (۳) بانس کی قسم کا ایک درخت جس کے بیجوں سے
سرخ رنگ نکالتے ہیں (۴) بانس کی نلکی جس کے ذریعے چکی میں
اناج ڈالتے ہیں۔

بانسا پھرجانا (معاورہ) بانسا ٹیڑھا ہونا۔ (جموت کی علامات میں سے ایک
علامت سمجھی جاتی ہے)۔

بانسری۔ بانسلی (بانس۔ ری)۔ بانس (لی) [۱-۵]۔ مٹا [۱]۔ مڑی۔
ایک قسم کا منہ بانجا۔

بانسی (بان۔ سی) [۱-۵]۔ مٹا [۱]۔ مٹا [۱]۔ مٹا [۱]۔ مٹا [۱]۔ مٹا [۱]۔
بندھے بناتے ہیں (۲) ایک قسم کا پتھر۔

بانگ (۱-۵)۔ مٹا [۱]۔ مٹا [۱]۔ مٹا [۱]۔ مٹا [۱]۔ مٹا [۱]۔
۳۱) عجیب گار۔ جس کا پھل حمدار ہوتا ہے (۳) ایک دھار دار اس جس
سے بانس اور گنا وغیرہ کاٹتے ہیں۔ یہ نعل کی شکل کا ہوتا ہے (۴) کمان
دھاب (۵) ایک ریور جو چند عورتوں یا یوں میں اور مسلمان بازو
میں پہنتی ہیں (۶) ایک قسم کی چوڑی رانہ دریا کا کھار۔ ندی کا موڑ۔

گاڑی کے پیسے سے بڑی طرف کی ایک ٹیڑھی اور لمبی لکڑی جو پیسے
کو گاڑی میں لٹکتی ہے (۱۰) فنون سپہ گری کی ایک قسم کی ورزش

بانگ (مٹا (معاورہ) بنا یا یا کام تراب ہونا (۲) رانڈ ہونا
بانگ پٹا (۱) مذ لکڑی کے بنے ہوئے پتھر یا تلوار سے حرم کے دنوں
میں کھیلنے ہیں۔

بانگ کا پھلا (۱) مذ ایک قسم کا ٹیڑھا پھلا جو سینگ یا ہڈی وغیرہ سے
بناتے ہیں۔

بانگ (بان۔ کا) [۱-۵]۔ صف [۱] ٹیڑھا۔ نر چھا (۲) البیلا۔ رنگیلا۔ وضع (۳)
دلیر۔ بہادر [مذ]۔ مذ [۱] شہداد۔ لٹھ۔ آزاد۔

بانگ پھیلنا (۱) صف) انخوش وضع۔ طر حلد (۲) معشوق۔
بانجین (بانگ۔ پن) [۱-۵]۔ مذ [۱] ٹیڑھا پن۔ خمیدگی (۲) البیلا پن۔

بانگ نازداد (۱) وضع (۲) جو خود نمائی کے ساتھ ہوا (۳) کمرشی۔ شہدائین۔ ج کڑی
بانگ (بانگ۔ ڈی) [۱-۵]۔ مٹا [۱] ایک قسم کی لکڑی جو کھجور کے
کی طرح ہوتی ہے۔

بانگ (بان۔ کی) [۱-۵]۔ صف [۱] بانگ کی تانیت۔
بانگ (بان۔ ڈا)۔ انداز معشوقانہ۔

بانگ (بانگ۔ مٹ)۔ نگاہ شوخ۔ نگاہ ناز۔ شوخ نظر۔
بانگ (بان۔ یک)۔ یا [۱-۵]۔ مذ [۱] تانبے یا پتیل کا باجو منٹوں اور سادھوں
مے آگے بجا جاتا ہے۔

بانگ (بانگ۔ مٹ) [۱]۔ آواز۔ صلا [۲]۔ آواز۔ نماز کا بلا (۳) مرغ
کی آواز۔ مرغ کی آواز۔

بانگ (بانگ۔ مٹ)۔ مٹا [۱]۔ مٹا [۱]۔ مٹا [۱]۔ مٹا [۱]۔ مٹا [۱]۔
بانگ (بانگ۔ مٹ)۔ مٹا [۱]۔ مٹا [۱]۔ مٹا [۱]۔ مٹا [۱]۔ مٹا [۱]۔

بانگ (بانگ۔ مٹ)۔ مٹا [۱]۔ مٹا [۱]۔ مٹا [۱]۔ مٹا [۱]۔ مٹا [۱]۔
بانگ (بانگ۔ مٹ)۔ مٹا [۱]۔ مٹا [۱]۔ مٹا [۱]۔ مٹا [۱]۔ مٹا [۱]۔

بانگ (بانگ۔ مٹ)۔ مٹا [۱]۔ مٹا [۱]۔ مٹا [۱]۔ مٹا [۱]۔ مٹا [۱]۔
بانگ (بانگ۔ مٹ)۔ مٹا [۱]۔ مٹا [۱]۔ مٹا [۱]۔ مٹا [۱]۔ مٹا [۱]۔

بانگ دینا (۱) آواز دینا پکارنا۔ (۲) اذان دینا
 بانگ ابان (گا) [۵-۱۰] نہا کیس۔ کیس کا پرند۔
 بانگر (بان گرا) [۵-۱۰] نند [۵-۱۰] ادبئی ہنوار زمین۔ کھاد کی ضد۔
 بانگڑو (بانگ۔ رکا) [۵-۱۰] صف [۵-۱۰] دقت۔ اجن بے تمیز۔
 بانگی (بان۔ گی) [۱-۱۰] منڈ [۵-۱۰] بانگ دینے والا۔ اذان دینے والا
 بانگ موذن۔
 بانگی ابان۔ گی [۵-۱۰] منٹ [نوتہ
 نانگی دینا۔ نمونہ دکھانا
 بانو (با۔ نو) [۱-۱۰] منٹ [بیگم۔ بیوی۔ شہزادی۔ خاتون۔ ملکہ۔
 بانو ابان۔ دا] [۵-۱۰] منڈ [یک چشم کا آبی پرند۔
 بانو کے ابان۔ دے] [۵-۱۰] صف [نوتے اور دو (۹۲)
 بانگھ (۵-۱۰] منٹ [۱۱] بازو (۲) کنایت و سید۔ سہارا رفیق۔ مددگار
 [۱۳] آستین (۴) حقیقی بھائی (۵) صنمن۔ کفیل (۶) طاقت۔ زور قوت
 بانگھ کرنا (۱۱) مدد کرنا۔ دستگیری کرنا۔ سہارا دینا۔ مدد کرنا۔
 بانگھ ٹوٹنا (۱) بازو ٹوٹ جانا (۲) پنکھ اگھڑ جانا (۳) مددگار جانا
 (۴) بھائی کا مر جانا۔
 بانگھ دینا (معاورہ) کسی کی مدد کرنا۔ سہارا دینا۔
 بانگھ لگنے کی لاج۔ دستگیری کی شرم۔ حمایت کا پاس۔
 بانگھیں چڑھانا (۱) آستینیں چڑھانا۔ آستینیں اٹھانا (۲) لڑنے کی
 تیار کرنا۔
 بانٹی (با۔ ٹی) [۵-۱۰] منٹ [۱۱] آواز۔ صدا (۲) بول چال (۳) دغظ
 تقریر (۴) فقیروں کی صدا (۵) اصول (۶) رباعی طرز کے ہندی
 گیت (۷) قول۔ مقولہ (سنکرت لفظ "وانی" کا بگاڑ
 بانٹی (با۔ ٹی) [۱-۱۰] صف۔ وا۔ منڈ [۱۱] بنیاد رکھنے والا (۲) شروع
 کرنے والا۔ موجد۔
 بانٹی جھا (سستم) [۱-۱۰] صف (ظلم۔ سفاک (۲) مشقوق۔
 بانٹی خفساوی۔ خفساویوں کا سفر۔ مفسد۔ خفساوی۔ خفساویا کی پولا
 بانٹی کار (۱) کام کا موجد (۲) بہت جلاک اور ہوشیار۔ خفساوی جڑ
 (۳) تیز آدمی۔ کسی کام کی ابتدا کرنے والا۔
 بانٹی مبیانی (۱) منڈ [اصل ذمہ دار۔ اصل باعث۔ وجہ سبب
 بانٹی ۵-۱۰] منٹ [۱۱] صدا۔ آواز (۲) تقریر۔ بیان۔ بات (۳) گیت
 ۱۵-۱۰] ساخت۔ بناوٹ (۶) گپ اٹیلنے کا دھماگا (۷) ایک نرد
 رنگ کی مٹی جسے کھار کے خشک برتنوں پر پکانے سے پہلے
 پھیرتے ہیں۔
 باور (با۔ اور) [۱-۱۰] منڈ [۱۱] باپ۔ با (۲) فقیر۔ (۳) گرو (۴) سروار
 باور آدم۔ حضرت آدم۔ نسل انسانی کے مورث اعلیٰ۔ ابو البشر
 باور آدم نرالا ہونا۔ نما انداز ہونا۔ سب سے الگ ڈھنگ ہونا۔
 سب سے جدا کام کرنا۔ کسی سے متفق نہ ہونا۔
 باور بھلا نہ بھیا۔ سب سے بھلا روپیہا۔ دیکھیے "باپ بھلا نہ بھلا
 باوراکا۔ موروثی۔ ذاتی۔ جدی۔

باوجود (اف اگر جب۔ باوصف۔
 باور (با۔ ورا) [۱-۱۰] منڈ [یقین۔ بھروسہ۔ اعتماد۔ اعتبار۔
 باورا (۵-۱۰] صف [پاگل۔ دیوانہ۔ باڈلا۔
 باور کرنا۔ یقین کرنا۔ مان لینا۔ اعتماد کرنا۔
 باور چین۔ باور چینی (باور۔ چین) باور۔ چ۔ نی [۱-۱۰] منٹ [ہوچی
 کی تائینٹ۔ کھانا پکانے والی عورت۔ باورچی کی بیوی۔
 باورچی (با۔ ورا۔ ورا) [۱-۱۰] منڈ [کھانا پکانے والا۔ رسوٹیا۔ طبخ
 باورچی خانہ۔ مطبخ۔ رسوٹی۔ کھانے پکانے کی جگہ۔
 باورچی گری۔ کھانا پکانے کا فن۔ کھانا پکانے کا پیشہ۔
 باورگ (با۔ وگ) بیج بونے کا دقت۔
 باورن (با۔ ورا) [۱-۱۰] صف [پچاس (اور دو) (۵۲)
 باورن بیر (۱) باورن بہادر (۲) فظری۔ متفنی۔
 باورن توے باورنی (۱) بیل) جیسے کا تیسرا بجنسہ۔ جوں کاتوں۔
 ٹھیک و درست۔ عمدہ۔
 باورن گزگا (۱) لمبا۔ طویل۔ دراز قامت (۲) فسادہ۔ شہریہ۔
 ماہ [۱-۱۰] منٹ [قوت مرومی۔ قوت جماع۔
 ماہ (۵-۱۰] منڈ [معاملہ۔ واسطہ۔ تعلق۔ کام۔
 باہا (با۔ ہا) [۵-۱۰] منڈ [۱۱] پانی نکلنے کا راستہ نالی۔ نہر۔ (۲) وہ بہن
 جس میں گنے سیتے وقت رس بگرتا ہے۔
 باہر (با۔ ہر) [۱-۱۰] صف [اروشن۔ واضح۔ صاف صاف (اور دو میں
 ٹکائے کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔
 باہر (با۔ ہر) [۱-۱۰] صف [تابع فعل (۱) بیرون۔ خارج۔ اندر کی ضد۔ کھلے
 میدان میں۔ کھلی ہوا میں (۲) پردیس میں سفر میں (۳) (صف) عمدہ۔ جلا جلا
 باہر باہر (۱) بالا بالا۔ اوپر ہی اوپر (۲) دور دور۔ الگ الگ۔
 باہر بھیر۔ اندر باہر۔
 باہر جانا (۱) سفر کرنا (۲) پانچلے جانا (۳) احاطے سے نکل جانا۔
 باہر سدھارنا۔ گھر سے باہر جانا۔ پردیس جانا۔
 باہر کا (۱) اجنبی۔ غیر (۲) دہشتانی۔
 باہر کا گھٹنے پھٹنے والا۔ مردوں میں نشست و برخاست رکھنے والا
 باہر کرنا (۱) نکال دینا۔ خارج کرنا (۲) چھوڑنا۔ قطع تعلق کرنا۔
 باہر کی پھرنے والی۔ پردے سے نکلنے والی۔ گلی بازار میں بے پردہ
 نکلنے والی عورت۔
 باہر کی ہوا لگنا (معاورہ) خارجی اثر قبول کرنا (۲) کنایت (۳) آوارہ ہونا۔
 باہر کے بھرنے والے (۴) حجاز (۵) نوکر جاگیر۔
 باہر کے کھانیں۔ گھر کے کھانیں۔ باہر کے کھانیں گھر کے گیت
 گائیں (۱) مثل اغیروں کر فیض ہو اور اپنے محروم رہیں محنت کوئی
 کرے فائدہ کوئی اٹھائے
 باہر میں بھرت ہزاری گھر میں ہوئی کیوں کی ماری۔ باہر میں
 صوبے دار۔ گھر میں ہوئی بھوننے بھاڑا۔ بھل میاں تو نواب بنے
 پھرتے ہیں اور بیوی نصیبوں کو روٹی ہے ۶ اس موقع پر بولتے

ہیں جب کوئی اپنی حیثیت سے زیادہ ٹھاٹھ کرے۔
 باہر نکلنا - (محاورہ) گھر سے برآمد ہونا (۲) پر دیس جانا۔
 باہر والا (۱) ہوٹل یا چائے خانہ کا ملازم جو باہر چائے وغیرہ لے کر
 جائے (۲) خاکروب - مہتر۔ بھنگی حلال خور
 باہر تری باہر - دیکھیے باہر یا ہر۔
 باہر (اباہہ - راء) [۱-۵] وہ شخص جو کمزور ہو کر پانی کا
 ڈول لیتا ہے۔
 باہم (یا- ہم) [۱-۵] (ت) نفع نسل) ساتھ ساتھ یکجا۔ بالاتفاق۔ آپس میں
 باہمہ کر - ایک دوسرے کے ساتھ۔ آپس میں۔
 باہمی (اباہہ - می) [۱-۵] (ف) صفت [آپس کا۔ ساتھ کا۔
 یا ہن (باہ - ہن) [۱-۵] [۱] گڑھی چھلکا (۲) پیتے کا نشان۔
 (۳) جوتی ہوئی زمین جس میں ابھی بیج نہ بکھیرا گیا ہو۔
 باہنا (اباہہ - نا) [۱-۵] [مص] (۱) پھیلانا۔ کھولنا (۲) اٹل چلانا۔ مخربزی
 کرنا۔ یوانا (۳) محنت کرنا (۴) پیچھے پڑنا۔ درپے ہونا (۵) گلگھی
 کرنا۔ گھسانا۔ داخل کرنا۔
 بائب (با - اب) [۱-۵] [۱] وہ سمت جو اتر یا کچھ کے کوئی ہے
 سے (۲) ایسے اثر کلام (۳) کسی چیز کا نشانے پر پہنچنا (۴) [صفت]
 عجیب حیرت انگیز (۵) عیحدہ۔ جگہ۔
 بائع (با - اع) [۱-۵] [ع] صفت۔ دا۔ بیع کرنے والا۔ بیچنے والا۔ جمع
 بالبعین۔ بالاتفاق۔
 بائ (با - ان) [ع] صفت [جد کر دینے والی۔ ایسی طلاق جس کے
 بعد رجوع نہ ہو سکے۔ رجعی کی ضد
 باؤ (با - او) [۱-۵] [مت] [۱] ہوا (۲) گھنٹہ۔ غور (۳) گوز
 یاد (۴) آتش
 باؤ آنا۔ رنج خارج ہونا۔
 ناؤ بانہضنا۔ ہوا بانہضنا۔ خوشامد کر کے اپنا مطلب نکلانا۔
 باؤ بندھی (۱) خیال باطل۔ مبالغہ آرائی۔ بے اصل بات (۲)
 ذریعہ۔ دھوکا۔
 باؤ کھڑکنا۔ سودا پی ہو جانا۔ دیوانہ ہو جانا۔ بکواس کرنا۔ لڑنا۔
 ناؤ بھجک۔ باؤ بھجک۔ باتوئی۔ یادہ گو۔ ادھر ادھر کی باتیں ملانا۔
 ناؤ بر آجانا۔ مغرور ہو جانا۔
 ناؤ ڈھٹی پھرنانا۔ وہی بنا ہی پھرنانا۔ ڈول ڈول پھرنانا۔ آوارہ پھرنانا
 ناؤ مہرنا۔ یاد آنا
 ناؤ سول۔ درد رنج
 ناؤ ہلنا۔ ایک دوا کا نام۔
 ناؤ کے کھوٹے پر سوار ہونا (۱) نہایت اترا نا۔ بے حد ناز
 سے چلنا (۲) جلد باز ہونا۔
 ناؤ گولا۔ وہ درد جو تپتی ہیں ہوا بھر جانے سے ہوتا ہے درد رنج
 ناؤ تاس (با - او۔ ب۔ تاس) [۱-۵] [مت] مصیبت۔ آفت۔
 بلا تکلیف۔

باؤٹا (با - او۔ ٹا) [۱-۵] [مت] [۱] جھنڈا۔ پھریا۔ (۲) ایک قسم کا زیور
 جسے ہندو عورتیں ہاتھ پر پہنتی ہیں۔
 باؤٹا اڑانا (۱) جھنڈا بلند کرنا (۲) پھڑکنا۔ نکلنا۔ خوب پٹنا۔
 باؤٹری (با - او۔ ٹری) [۱-۵] [مت] [۱] باؤٹی۔ بڑا کنواں۔
 ناؤ لا (۱-۵) [صفت] دیوانہ۔ پاگل۔
 ناؤ لکنا (۱) دیوانہ کنا (۲) آدمی جو خواہ خواہ دوسروں کو ایذا پہنچانے
 ناؤ لی (۵) [صفت]۔ دیوانی۔
 ناؤ لی کھاٹ کے باؤ لے پاؤ۔ باؤ لی رانڈ لے جائے (مثل)
 ایک جیسے ہیں۔
 ناؤ لی (با - او۔ لی) [۱-۵] [مت] [۱] وہ پزند جس کے ذریعے
 پزندوں کو شکر کرنے کی مشق کرانی جاتی ہے (۲) تریب چال بھانسا
 ناؤ لی (با - او۔ لی) [۱-۵] [مت] [۱] پکا کنواں جس میں سیڑھیاں
 بنتی ہوئی ہیں (۲) پاگل عورت۔
 ناؤ لی تینا (۱) جھانسا دینا (۲) اشتغال دینا۔
 ناؤ لی دینا۔ اشتغال دینا۔ ہمت بڑھانا۔ شکاری پرند کو کسی
 دوسرے پرند پر چھیننے کی مشق کرنا۔
 ناؤ نی (با - او۔ نی) [۱-۵] [مت] [۱] بونے کا وقت۔
 ناؤ (با - ای) [۱-۵] [مت] [۱] ہمارا نی۔ رانی بیگم (۲) ہمیشہ
 (۳) گلنے والی عورت (۴) رنج۔ یاد (۵) شخص۔ رنج (۶) ہراسام
 پائے رنگ (با - اے۔ ب۔ رنگ) [۱-۵] [مت] [دیکھئے با رنگ
 ناؤ نیس (با - ایس) [۱-۵] [صفت] ایس اور دود (۲۲)
 بائیکل (Bicycle) (با - ای۔ سی۔ کل) [انگ] [۱] متا سائیکل
 ایک قسم کی چوبینا گاڑی جو پاؤں کی حرکت سے چلتی ہے۔
 بائیسٹی (با - ای۔ سی) [۱-۵] [مت] [بہت بڑی شاہی فوج (جو کہ ایس
 صوبوں میں سے تھی) ہو (۲) بائیس ہزار فوج کی سپہ سالاری۔ بڑی
 سپہ سالاری۔ بڑی کمان۔
 بائیسٹی ٹوٹنا۔ پورے زور سے حملہ کرنا۔ پوری فوج کے ریلیف کرنا۔
 بائیکاٹ (Boycott) (با - ای۔ کاٹ) [انگ] [۱] قطع تعلق
 [مقاطعہ۔ حقہ بانی بند (کرنا)
 بائیکاٹ کرنا۔ قطع تعلق کرنا۔ مقاطعہ کرنا۔ تجارتی یا معاشرتی تعلقات
 سے خارج کرنا۔
 بائیس سرا (با - ایس) [۱-۵] [صفت] [۱] مومن۔ اٹلی۔ کھسی۔
 بائیس آنکھ بھونکنا۔ بائیس آنکھ کے چوٹے میں خود بخود حرکت ہونا جو
 بد شگونئی سمجھی جاتی ہے۔
 بائیس کرنا (محاورہ) استور مچانا۔ بے سودہ ہائیس کرنا۔
 بائیس طرف۔ چپ کی سمت۔ اٹھے ہاتھ کی جانب۔
 بائیس ہاتھ سے رکھوا لینا (محاورہ) زبردستی لے لینا۔
 بائیل (با - یاں) [۱-۵] [صفت] [انگ]۔ کھباچپ (اند) وہ بلکہ جو بائیس
 ہاتھ سے بجا جاتا ہے۔
 باہاں بازو (۱) [صفت] [۱] اٹا بازو (۲) سیاست اہل مخالف۔

(۳۱) سوہن حلوسے کی قسم کی ایک مٹھائی۔
بتیسی اہت۔ تی۔ سی [۱۰۔ مٹھ] آدمی کے دانتوں کی دونوں اطراف
مٹھ دانت۔
بتیسی بجننا (مجادرہ) دانت بجننا کیکپانا۔ دانتوں کا آپس میں ایک
دوسرے سے ٹکرانا۔
بتیسی بند ہونا (مجادرہ) حالت غشی میں دانتوں کا جکڑ جانا۔ اوپر اور
نیچے کی بڑی کامل کمر بند ہوجانا۔
بتیسی حلق میں ہوگی (مجادرہ) اتنی مار پڑے گی کہ دانت ٹوٹ
کر حلق میں چلے جائیں گے۔
بتیسی دکھانا (مجادرہ) بے پورہ ہنسنا۔ دانت دکھانا۔ منہ چرمانا۔
(۲) انگساری کرنا۔ عاجزی کرنا (۳) لجاجت اور خوشامد کرنا۔

ب - ٹ

بٹ (م۔ ۱۔ مذ) ٹکٹا۔ حصہ (۱۲) کل۔ سلوٹ (۳) تولنے کا وزن۔ ٹا۔
(۴) وہ شکن جو فرنی کے باعث ہنک پر نمودار ہوا (۵) لہ۔ پگھلنے کی
باٹ کا مخفف (۶) وہ سوچن جو کسی ضرب کی وجہ سے ہوجاتی ہے (۷)
ادھڑی کا موٹا موٹا گوشت جس میں تار نہیں ہوتے۔ (۸) کشمیریوں
کی ایک ذات۔
بٹ مار۔ لیٹا۔ ڈاکو۔ راہ زن۔
بٹ ماری۔ رہزنی۔ ڈاکا۔
بٹ موگرا (۱۱) ایک قسم کا بڑا موگرا (۲) ایک خوشبودار پھول کا نام
بٹا (بٹ ٹا) (۵)۔ مذ (۱۱) تولنے کا وزن۔ باٹ (۲) کٹوتی۔ کمی۔
گھٹا۔ کسر (۳) فرق (۴) کھوٹ۔ خرابی (۵) دھبا۔ عیب (۶) مسالہ
پیسے کا تھہر (۷) زبرد رکھنے کا ڈبا (۸) گول آئینہ (۹) مداروں کے گول
گول ڈھکنے جن میں گولیاں رکھ کر غائب کرتے ہیں (۱۰) نقصان کا وہ
کاٹھ کا گولا جو خون نکالتے وقت ہاتھ میں پھرنے کے لیے دیا جاتا ہے
(۱۱) ارباب نشاط کا انعام (۱۲) پتیل کی نشا (۱۳) کمی جو ایک ملک
کے سکے کو دوسرے ملک کے سکے میں بدلتے سے کہتی پڑتی ہے۔
بٹا آنا۔ کمی پڑنا۔
بٹا دینا۔ کمی پوری کرنا۔
بٹا ڈالنا۔ ہموار۔ برابر۔ سپاٹ۔
بٹا سٹا۔ ایک قسم کی زہر (۲) سازش (۳) تبادلہ۔ لین دین بعض
گھرانوں میں بٹا سٹا کا رشتہ بھی ہوتا ہے۔
بٹا لگانا (۱) کمی پوری کرنا (۲) کٹوتی کا ٹٹا۔ (۳) عیب لگانا
بٹا لکنا۔ کٹوتی لکنا۔ کمی ہونا (۲) عیب لکنا۔ حرف آنا۔ ساکھ بگڑنا۔
بٹے باز (۱) چالاک۔ دغا باز (۲) بازی گر۔ شعبہ باز۔
بٹے بازی۔ چالاک۔ شعبہ بازی۔ دغا بازی۔
بٹے بڑھانا۔ نفع نقصان پر خریدنا۔
بٹے دار رو بہ۔ ناقص رو بہ۔ جس پر بٹا پڑے۔

(مثل) ادنیٰ چیز کی کچھ قدر و قیمت نہیں۔ دور کا رشتہ کوئی رشتہ
نہیں ہوتا۔
بتی اہت۔ تی [۱۰۔ مٹھ] (۱۱) نقیل (۲) سوت کی ڈوری جو ریمپ
اور چراغ وغیرہ میں جلائی جاتی ہے اور زخم میں بھی رکھی جاتی ہے۔
(۳) موم یا چربی کی شمع۔ دیا (۴) بڑی کا باریک بٹا ہوا بیج (۵) بانس
یا سرکنڈے کی گدی جو پتھر میں آڑی باندھنے میں ۱۶ لاکھ۔ اگر
صندل یا بارود وغیرہ کا قبیلہ (۶) حیوانات کا گوشت جو پیٹھ کی
بڑی کے دونوں جانب ہوتا ہے۔
بتی آکسانا۔ روشنی بڑھانے کے لیے چراغ کی بتی کو آگے بڑھانا۔
بتی بٹنا (۱) روٹی یا کاغذ یا کپڑے کا پٹینا (۲) چراغ میں بتی ڈالنے
کے لیے روٹی سے بتی بنانا۔
بتی بنا کر رکھ چھوڑو (مجادرہ) بے کار ہے۔ مطلب کی نہیں بنا (شکلی
کی صورت میں کسی چیز کے متعلق کہا جاتا ہے۔
بتی بنانا (مجادرہ) کسی چیز کو لیٹنا۔
بتی جلانا۔ چراغ جلانا۔ روشنی کرنا۔
بتی چڑھانا (۱) خانوس یا کتوں میں چربی کی بتی رکھنا (۲) زخم میں
دوا کی بتی بنا کر داخل کرنا (۳) بتی کا اوپر کو سرکانا۔
بتی دکھانا (۱) بندوق، توب یا گولا چھوڑنا۔
بتی دینا۔ آگ لگانا۔ داغنا۔
بتی اہت۔ تی [۱۰۔ مٹھ] (۱۱) لڑکوں کا ایک کھیل جس میں ایک
لڑکا گول ٹھیکری پاؤں کے انگوٹھے کی گھائی میں رکھ کر پھینکتا
ہے اور دوسرا لڑکا اسی ٹھیکرے کو پاؤں کے انگوٹھے کی گھائی میں
رکھ کر ایک سانس میں اٹھا لاتا ہے اور بتی رتی کتنا جاتا ہے (۲)
گول ٹھیکری (۳) دوڑ۔
بتی پلا دینا۔ عاجز کر دینا۔ مار مونا۔
بتی بول جانا۔ عاجز ہو جانا۔ بے کار ہوجانا۔
بتیا اہت۔ یا [۱۰۔ مٹھ] (۱۱) ہرا اور پکی پھل (۲) لبا بینگن۔
بتیس (اہت۔ تیس) [۱۰۔ صف] تیس اور دو (۲۲)
بتیس ابرن۔ تیس زبور۔
بتی دانت کی بھا کا خالی نہیں جاتی (۱) مثل) مظلوم کی آہ یا بددعا
راہگاہوں نہیں جاتی۔
بتیس دانتوں میں زبان (مثل) دشمنوں سے گھرا ہوا۔
بتیس دھار۔ ماں کا دودھ۔
بتیس دھار ہو کر نکلنا۔ بتیس زخموں کے راستے سے نکلنا۔ پھوٹ
پھوٹ کے نکلنا۔ (بددعا)
بتیس دھاریں و دودھ بخشا۔ ماں کا اپنا پلایا ہوا دودھ مرتے وقت
اولاد کو بخش دینا۔
بتیا اہت۔ تی [۱۰۔ مٹھ] (۱۱) ایک قسم کا مقوی حلوا جو لڑکوں
کو کھانے کے بعد تیس دوا میں ڈالی کر دیا جاتا ہے (۲) وہ دوا جو
گھوڑی کو بچھرنے کے بعد تیس دوا میں ڈالی کر دی جاتی ہے۔

بیسٹر لڑانا (مجادرہ) پالی میں بیٹروں کو لڑانا (۲) لڑانا، جھگڑا پیدا کرنا۔
بیسیری اب۔ ٹے۔ ری (۱-۵)۔ منٹ [ہندوؤں میں بیٹی والوں کی
طرف سے دو لہا کا نذرانہ۔ خلعت دینے کی رسم۔

ب - ج

بجلی (بجری) [۱-۵]۔ منٹ (۱) [برق۔ صاعقہ چمک۔ برقی قوت (۲)
آم کی کھلی کا مغز (۳) عورتوں کے کان کا ایک زیور (۴) [صف]
چالاک۔ پھر نیلا چست۔ تیز۔

بجلی بسنت۔ بسنت رت کی بجلی۔ موسم بہار کی کڑک جو اور موسموں
کی نسبت زیادہ ہوتی ہے۔

بجلی پڑنا (۱) آم کی کبری میں کھلی پڑنا۔
بجلی ٹوٹے۔ بجلی گرے، بجلی پڑے۔ آگ لگ جائے۔ مرجائے۔

بتابہ دیر باد ہو جائے۔ (بد دعا)
بجلی کا کڑکا۔ وہ آواز جو بادلوں کی رگڑ سے پیدا ہوتی ہے۔

بجلی کرکنا۔ بادلوں کی رگڑ سے آواز پیدا ہونا۔
بجلی کو نڈنا۔ بجلی چمکنا۔

بجلی کی تلوار۔ بجلی کی طرح کاٹ کرنے والی تلوار۔ تیغ بڑاں۔
بجلی کی پنک۔ بجلی کی چمک۔

بجلی کے بالے۔ کانوں میں بیٹنے کے جوڑے حلقے
بجلی کرنا۔ آفت ڈھانا۔ تہ ڈالنا۔ صدمہ پہنچانا۔

بجلی کرنا (۱) آسمانی بجلی کے شعلے کا کسی کو جلا دینا (۲) مجازاً آفت آنا۔
صدمہ پہنچانا۔

بجلی گھر۔ وہ عمارت جس میں بجلی پیدا کرنے اور تقسیم کرنے کے آلات
نصب ہوتے ہیں (انگ۔ منڈ) (Power House)

بجلی جہان گھر میں نہیں تنکا (مثل) خود غریب ہے اور امیروں کو
دعوت دیتا ہے۔

بجنا (بج۔ نا) [۱-۵]۔ مص (۱) آواز نکلنا۔ بولنا (۲) مشہور ہونا (۳) [منڈ]
دالوں کی اصطلاح میں رو بہر (۴) [صف] آواز دینے والا۔ بکنے والا
(۵) ہمدردی یا قوت سے دانتوں کا آپس میں ٹکرا کر آواز پیدا کرنا۔

بجنا (بج۔ نا) [۱-۵]۔ منڈ [حیض کی گدی۔ حیض کا تانا۔
بجنتی اب۔ جننت۔ ری (۱-۵)۔ منڈ [کانے بجانے والے۔ باجنتر

بجنتی کی محل۔ وہ محل جہاں کانے بجانے والے رہتے ہوں۔
بجو (بج۔ جو) [۱-۵]۔ منڈ [۱] ایک قسم کا گوشنت خورد جانور جو در بھر
ہلوں میں رہتا ہے اور رات کو باہر نکلتا ہے۔ اس کی آنکھیں سہی

بہت چھوٹی ہوتی ہیں [مجازاً] چھوٹی آنکھوں والا آدمی چالاک
بجوانا (بج۔ دانا) [۱-۵]۔ مص [بجوانا کا متعدی

بجوٹھا اب۔ بجوٹھا [۱-۵]۔ منڈ [۱] ایک قسم کا زیور جسے ہندو عورتیں
بازو بند کی جگہ استعمال کرتی ہیں۔

بجوڑا (بج۔ جوڑا) [۱-۵]۔ منڈ [۱] ایک قسم کا ایک ترش پھیل۔
بجوڑنا (بج۔ جوڑنا) [۱-۵]۔ مص [۱] خوب پینا (۲) رگڑنا (۳) جماعت کرنا

بجوگ (بج۔ جوگ) [۱-۵]۔ منڈ [۱] مخوس سناریوں کا طالع میں قرآن
(۲) [منڈ]۔ مصبت۔ صدمہ۔ حادثہ (۳) بد نصیبی۔
بجوگ پڑنا (۱) مفارقت پڑنا۔ بچوٹنا (۲) مصیبت پڑنا۔ پتیا پڑنا۔
بجوگی (بج۔ جوگی) [۱-۵]۔ صف [۱] بد نصیب، بد قسمت۔ مصیبت زدہ۔
بجھا (بجھا۔ بٹ۔ بٹ) [۱] بجھا ہوا (۲) افسردہ۔ غمگین۔ لول۔

بج (۱) فعل (بجنا مصدر کا صیغہ امر
بجنا۔ بجانا مصدر کا صیغہ امر

بجنا اب۔ [بجنا] [صف] [۱] درست ٹھیک۔ صحیح۔ مناسب۔
بجنا (۲) [تابع فعل] مناسب موقع پر۔ ٹھکانے پر

بجنا اور بی تعیل حکم۔ انجام دہی۔
بجنا رہنا۔ درست کرنا۔ ٹھیک رہنا۔ قائم رہنا۔

بجنا کرنا۔ ٹھیک کرنا۔
بجنا کے جسے عالم، اسے بجنا بھو (مثل) جس بات کو دنیا ٹھیک کہتی
ہو اسے ٹھیک سمجھنا چاہیے۔

بجنا لانا۔ تعیل حکم کرنا۔ انجام دینا کہنے کے موافق کرنا پورا کرنا۔
بجنا ہونا۔ درست ہونا۔ ٹھیک ہونا۔

بجناج (بج۔ جاج۔ بج۔ جاج) [۱-۵]۔ منڈ [۱] بزاز کا بگاڑ (۲) ہندوؤں
کی ایک ذات۔

بجنا (بج۔ جار) [۱-۵]۔ منڈ [۱] سانڈ موٹا تازہ پیل جو گا بیوں میں نسل
کے لینے چھوڑا جاتا ہے (۲) وہ پیل جو ہندو اپنے کسی مردے کے

نام پر داغ دے کر چھوڑ دیتے ہیں (۳) [کنیا سنی] پر سنہوت آدمی
(۴) زبردست، زور آور اور خوب تندرست آدمی۔

بجنا اب۔ جانا [۱-۵]۔ مص [۱] بلے کی آواز نکالنا (۲) پرکھنا۔ کھوٹا
کھر اور یافت کرنا (۳) خدمت کرنا۔ تعیل کرنا (۴) مارنا پینا (۵)

داغنا۔ سر کرنا (۶) جماعت کرنا۔
بجائے (بج۔ جا۔ اے) [ف] [تابع فعل] [۱] بعوض۔ بدلے میں (۲)

جگہ پر قائم مقام کے طور پر
بجنا (بجنا۔ بج۔ بک۔ جانا) کسی چیز کا سر کرنا یا خراب ہو جانا کہ اس
میں بیلے اٹھیں۔ بڑھانا۔ اٹھنا۔

بجٹ (Budget) ب۔ بجٹ [انگ۔ ۱-۵]۔ منڈ [۱] میزائبر۔ ملکی جمع
خرچ کا حساب۔

بجنا (بج۔ جر) [۱-۵]۔ منڈ [۱] پتھر (۲) [صف] بوجھل کرنا۔ کھن۔ مشکل۔
(۳) سست۔ کابل۔

بجنا (بج۔ را) [۱-۵]۔ منڈ [۱] ایک قسم کی گول اور خوبصورت کشتی۔
بجنا (بج۔ بڑ۔ ٹو) [۱-۵]۔ منڈ [۱] سیاہ جنگلی چیل (۲) ایک قسم
کا کھلونا۔

بجنا (بج۔ رنگ) [س۔ ۱-۵]۔ منڈ [۱] ہنومان کا لقب۔
بجنا (بج۔ ری) [۱-۵]۔ منڈ [۱] سنگ ریڑھ۔ چھوٹے چھوٹے پتھر
(۲) اولوں کی پھوار۔ چھوٹے چھوٹے اڈے

بجھارت (ب۔جھارت) [ہ۔۱۔مٹ] پہلی معما۔ چیتان (۲) حساب کا تفسیقہ۔
بجھانا (ب۔جھانا) [ہ۔مص] (۱) آگ پر پانی ڈالنا (۲) خاموش کرنا
 دور کرنا۔ رفع کرنا (۳) آب دینا۔ آب چڑھانا (۴) جاندی سونے
 یا اینٹ کو آگ میں لال کر کے پانی میں ڈالنا تاکہ اس کی رطوبت نکل
 ہو جائے (۵) بڑ مرودہ کرنا۔ حوصلہ توڑنا (۶) دھبہ کرنا۔ ملامت کرنا۔
بجھاؤ (ب۔جھاؤ) [ہ۔۱۔مذ] نیزی۔ کاٹ۔
بجھایا پانی (ب۔جھایا پانی) [ہ۔۱۔مذ] وہ پانی جس میں سونے یا
 لوہے کا خوب تپا کر ڈالا گیا ہو۔
بجھو۔ **بجھول**۔ **بجھو**۔ **ب۔جھو**۔ **ب۔جھو**۔ **ب۔جھو**۔ **ب۔جھو**۔ **ب۔جھو**۔ **ب۔جھو**۔
بجھرا (بجھرا) [ہ۔۱۔مذ] (۱) بچھڑنا (۲) بچھڑنا اور چٹا ہونا غلہ
 (۳) [صف] ملا ہوا۔ آمیزہ۔
بجھرا (ب۔جھرا) [ہ۔۱۔مذ] (۱) لگ کر جس میں گرم پانی رکھتے
 ہیں (۲) ایک خاص وضع کا سر پوش جسے گھڑوں پر رکھتے ہیں۔
بجھرا گاہ (بجھرا گاہ) [ہ۔۱۔مذ] پیرانوں کے ڈرانے کا پتلا۔ کاتی ہندو
 جو پیرانوں کو ڈرانے کے لیے کھیتوں میں لکڑی پر لٹکا دیتے ہیں
 و باگڑ بلا۔
بجھنا (بجھنا) [ہ۔مص] (۱) جلتی ہوئی چیز کا ٹھنڈا ہو جانا (۲) تپتی
 ہوئی اینٹ یا لوہے وغیرہ کا پانی میں سرد ہونا (۳) سیری ہونا۔
 (۴) افسردہ ہونا۔ مایوس ہونا (۵) دھبہ ہونا۔ نرم پڑنا۔
بجھوتا (ب۔جھوتا) [ا۔مذ] (۱) حساب ٹھہری (۲) سالانہ پیداوار
 کا اوسط۔
بجھول (ب۔جھول) [ہ۔۱۔مٹ] دیکھیے **بجھ بھول**۔
بجھی آگ (ب۔جھی آگ) [مٹ] آگ جو سرد ہو گئی ہو۔ نسا جو مٹ گیا ہو۔
بجھی آواز۔ **بجھی آواز**۔ **بجھی آواز**۔ **بجھی آواز**۔
بجھی بجھی (ب۔بجھی) [ہ۔۱۔مٹ] **بجھی**۔ **بجھی**۔ **بجھی**۔ **بجھی**۔ **بجھی**۔
بجھے ہوئے (بجھے ہوئے) [ہ۔۱۔مٹ] (۱) افسردہ آواز۔
بجھیرا (ب۔بجھیرا) [ہ۔۱۔مذ] لکڑی کا آلہ جس پر صراحی رکھتے ہیں
 گھروچی (۲) ڈھکنا۔
بجھیل (ب۔بجھیل) [ہ۔صف] لدا ہوا۔ بھاری۔ بوجھ والا۔
بجھے (ب۔بجھے) [ہ۔۱۔مذ] اصل سنسکرت وجھے۔ فتح جیت جے
بجھیا (ب۔بجھیا) [ہ۔۱۔مٹ] **بجھیا**۔ **بجھیا**۔ **بجھیا**۔
بجھیللا (ب۔بجھیللا) [ہ۔۱۔مٹ] (۱) وہ الارضی جس میں بیج کثرت
 سے پیدا ہوا (۲) وہ پھل جس میں بکثرت بیج ہوں۔

ب.ج

بج (ب۔ج) [ہ۔۱۔مٹ] ایک مشہور کڑوی دوا۔ (۲) بچنا کا امر۔
بج رہنا (بج رہنا) [ہ۔۱۔مٹ] (۱) بچنا رہنا۔ جھوٹ رہ جانا۔

بج کے چلنا (محاورہ) راہ چھوڑ کے چلنا (۲) احتیاط سے چلنا۔
بججا (ب۔بججا) [ہ۔۱۔مٹ] باقی رہا ہوا۔ باقی ماندہ۔ بقیہ۔
بججا (بججا) [ہ۔۱۔مٹ] (۱) باقی ماندہ۔ بقیہ۔
بججایا (بججایا) [ہ۔۱۔مٹ] باقی ماندہ۔ بقیہ۔
بججانا (بججانا) [ہ۔۱۔مٹ] (۱) زد سے بچ جانا۔ (۲) مقابلے سے ہٹ جانا۔
بججانا (بججانا) [ہ۔۱۔مٹ] محفوظ کرنا۔
بججار (ب۔بجار) [ہ۔۱۔مٹ] (۱) وچار۔ سوچ۔ غور۔ فکر۔ دھیان (۲)
 قیاس۔ اندازہ۔ شکل (۳) سمجھ۔ عقل۔ تیز۔ تند۔ سیر (۴) ارادہ۔
بجار کرنا (بجار کرنا) [ہ۔۱۔مٹ] (۱) سوچنا۔ فکر کرنا (۲) خیال کرنا۔ غور کرنا۔
بچار (بچار) [ہ۔۱۔مٹ] (۱) قیاس کرنا (۲) اندازہ لگانا۔
بچارنا (بچارنا) [ہ۔۱۔مٹ] (۱) شمار کرنا۔ (۲) شماروں کی چال دیکھنا (۳) تخمینہ کرنا (۴)
 بدگونی کرنا (۵) ارادہ کرنا۔ قصد کرنا۔
بچارا (ب۔بچارا) [ہ۔۱۔مٹ] (۱) بے چارہ۔ سیدھا سادا۔ بھولا۔
 (۲) غریب۔ مفلس۔
بچالی (ب۔بچالی) [ہ۔۱۔مٹ] (۱) ایک قسم کی گھاس۔ وہ گھاس جو
 گھوڑوں کے تھان پر بچھائی جاتی ہے۔
بچانا (ب۔بچانا) [ہ۔۱۔مٹ] (۱) حفاظت کرنا۔ پناہ دینا۔ حمایت کرنا
 (۲) رکھنا۔ جمع کرنا (۳) بری کرنا (۴) سنبھالنا۔ روکنا (۵) نجات دینا۔ بچھڑنا
 (۶) چرانا۔ نین کرنا (۷) اڑانا۔ لگ کرنا (۸) چھپانا (۹) مدد کرنا۔ دستگیری
 کرنا (۱۰) آزاد کرنا۔ چھوڑ دینا (۱۱) راستہ چھوڑنا (۱۲) مصیبت سے
 نجات دلانا۔
بچاؤ (ب۔بچاؤ) [ہ۔۱۔مٹ] (۱) حفاظت۔ آسرا۔ (۲) پناہ۔ سلاحت
 (۳) نجات۔ مخلصی (۴) عذر (۵) بہانہ (۶) حفاظت کی جگہ۔
بچاؤ کرنا (بچاؤ کرنا) [ہ۔۱۔مٹ] دفاع کرنا۔
بچپن (بچپن) [ہ۔۱۔مٹ] (۱) بچپن۔ کم عمری۔ صغر سنی۔
بچپن کرنا (بچپن کرنا) [ہ۔۱۔مٹ] نادانی کرنا۔
بچپن کی باتیں (بچپن کی باتیں) [ہ۔۱۔مٹ] (۱) بچپن کی باتیں۔
بچپنا (بچپنا) [ہ۔۱۔مٹ] (۱) بچپن۔ صغر سنی۔
بچکت (بچکت) [ہ۔۱۔مٹ] (۱) پس انداز۔ بچا کر رکھی ہوئی
 چیز (۲) نفع۔ فائدہ (۳) باقی۔ بقیہ۔
بچکترا (بچکترا) [ہ۔۱۔مٹ] (۱) مصور۔ نقاش۔
بچک (بچک) [ہ۔۱۔مٹ] (۱) خوف۔ ڈر (۲) مایوسی
بچکانا (بچکانا) [ہ۔۱۔مٹ] (۱) بچکانا۔ بچکانا۔ بچکانا۔
بچکانا (بچکانا) [ہ۔۱۔مٹ] (۱) ڈرنا۔ خوف دلانا (۲) بچھنے بھٹانا (۳)
 نا امید کرنا (۴) وعدے سے پھر جانا۔
بچکانی (بچکانی) [ہ۔۱۔مٹ] (۱) بچکانا کی تائید (۲) [مٹ]
 سر چھوئی لڑکی (۳) نامک کی پانی ہوئی لڑکی۔
بچکنج (بچکنج) [ہ۔۱۔مٹ] (۱) بچکنج۔ بچکنج۔
بچکنج (بچکنج) [ہ۔۱۔مٹ] (۱) بچکنج۔ بچکنج۔

پچگان (ف) مذا پچہ کی جمع۔
 پچگانہ (ف) صف ایچوں کے متعلق۔ طفلانہ۔ بچنے کا۔ بچوں کی طرح
 بچگی (بی) جمع۔ گی (ف) ۱۔ مٹ [ک سنی۔ نابالغی۔ بچپن۔ طفلی
 بچل اب۔ چل [ہ۔ صف ایچ کا۔ وسطی۔
 بچلا ۱۔ صف اور میانہ۔ مچھلا۔ بیچ کا۔
 بچلنا (ب) چل۔ نا [ہ۔ مص ۱۱] پھلنا (۲) ہلنا۔ بھولنا۔ غلطی کرنا
 (۳) کم ہو جانا۔ رستہ بھولنا۔ (۴) چلنا۔ اڑنا۔ ضد کرنا۔ (۵) بد کرنا۔
 بھڑکنا (۶) دیوانہ ہونا۔ جنون ہونا۔
 بچن (ب) بچن [ہ۔ ر مذ ۱۱] قول۔ بات۔ گفتگو۔ کلام (۲) عہد و
 پیمانہ۔ شرط
 بچن بال (ہ) صف۔ بات کا پورا۔ قول پر قائم رہنے والا
 بچن بالنا (مخاورہ) (۱) اپنے قول پر قائم رہنا۔ ایمان پر ثابت قدم رہنا
 بچن توڑنا۔ بچن چھوڑنا (مخاورہ) وعدہ توڑنا۔ قول سے پھر جانا۔
 بچن دینا (مخاورہ) قول کرنا۔ عہد و پیمانہ کرنا۔ زبان دینا۔
 بچن دلنا (مخاورہ) سوال کرنا۔ پوچھنا۔
 بچن لینا (مخاورہ) (۱) اقرار لینا۔ وعدہ لینا۔ عہد لینا۔ قول و قرار لینا
 (۲) قسم لینا۔
 بچن ماننا (مخاورہ) اطاعت کرنا۔ مان لینا۔
 بچن بنا ہونا (مخاورہ) اپنی بات پر قائم رہنا۔ بات کا پاس کرنا۔
 بچن ہانا (مخاورہ) (۱) زبان دینا۔ اقرار کرنا۔ وعدہ کرنا (۲) قول سے
 پھرنا۔ بات پر قائم نہ رہنا
 بچنا (ب) نا [ہ۔ مص ۱۱] الگ رہنا محفوظ رہنا (۲) باقی رہنا۔
 بڑھنا (۳) زندہ رہنا۔ جینا۔ شفا پانا (۴) ہمتا (۵) آرام ہونا۔ اچھا
 ہونا (۶) پریر کرنا (۷) رہائی پانا (۸) بہانہ کرنا (۹) رہائی پانا (۸)
 رہا بہانہ کرنا (۹) خرچ نکال کر فائدہ ہونا۔ جمع ہونا۔ نفع ہونا (۱۰) جلد رہنا
 پچو (ب) (ب) ۱۔ ۱۔ مذ [۱] بچہ کی تصغیر (۲) حقارت سے مخالف کو
 بھی کہتے ہیں۔
 پچورنا (ب) پچورنا [ہ۔ مص] مالیدہ کرنا۔ ملنا۔ رو کرنا۔
 پچولیا (ب) بچول (یا) [ہ۔ مذ ۱۱] ثا لنت۔ بیچ [۲۰] دلال ضمان
 فیصلہ کرنے والا۔ نزاع دور کرنا والا۔
 پچونگر (ب) پچونگ۔ ٹا [ہ۔ ۱۔ ۱۔ مذ ۱۱] بچہ۔ بانک [۲۱] صف [نالوں
 بے وقت۔
 پچوں سے گود بھری رہے (دعا) اولاد زندہ رہے۔ کثرت سے
 اولاد ہو۔
 پچوں کا کھیل (۱) آسان کام۔ سہل بات (۲) بچوں کے کھیلنے کی چیز۔
 (۳) فضول بات۔ بے کار کام۔
 پچوں والی (ہ) مٹ [ث] ماں۔ صاحب اولاد عورت (۲) چپک۔
 سینلہ خسرو۔
 پچو (ب) (ب) ۱۔ ۱۔ مذ [۱۱] طفل۔ بال۔ بانک [۲۱] چھوٹی عمر کا لودا
 نادان شخص (۲) جزوہ (۵) فیروز کا تکیہ کلام (۶) معصوم اور بے گنا

آدمی۔ جمع بچگان۔
 بچہ بازی۔ لوندے بازی۔ غلام۔
 بچردان۔ رحم۔ بچے دانی۔
 بچرکش۔ وہ عودت جو بہت بچے جسے بچے دینے والی۔
 بچہ کشی۔ بال ہتیا۔ بچے کا قتل۔
 بچہ مینا (کنا بیتہ) منتراب۔
 بچے بھرانہ۔ جانوروں کا اپنے بچوں کو چونچ سے دانہ کھلانا چوگا دینا
 بچے کے۔ رٹکے ہالے۔ پھوٹے بڑے بچے۔
 بچے نکلوانا۔ پرندوں کو اندوں پر بھٹانا تاکہ بچے نکل آسکیں۔
 بچے والی۔ بچے دار۔ اولاد والی۔
 بچہ (ہ) مذ [پچھڑا۔
 بچھا (ب) بچھڑا۔ بچھا [ہ۔ ۱۔ مذ ۱۱] فاصلہ۔ وقفہ عرصہ۔ فرق۔ حملت۔
 درمیان۔ بیچ۔
 بچھا جانا (ب) بچھا جانا [ہ۔ ۱۔ مص ۱۱] عجز و انکسار کرنا۔ مچھنا (۲)
 بہت توہین و مدارت کرنا۔
 بچھتیا (ب) پچھت۔ یا [ہ۔ ۱۔ مٹ] چھپکلی
 بچھ جانا (مخاورہ) فرش ہو جانا (۲) مال ہو جانا۔ فرقتہ ہو جانا (۳) کثرت
 سے زمین پر گر کر بچھ جانا (انکسار کے ساتھ بچھ جانا۔
 بچھڑو (ب) بچھڑو [ہ۔ ۱۔ مذ] پچھڑا۔
 بچھڑا۔ بچھڑا (ب) بچھڑا۔ بچھڑا [ہ۔ ۱۔ مذ] گائے کا بچہ۔
 بچھڑا کھونٹے کے بل گودتا ہے (مثیل) ہر شخص اپنے حمایتی پر کھنڈ
 کر کے ہے۔
 بچھڑا (ہ) صف۔ دور افتادہ۔ جدا۔
 بچھڑا (ب) بچھڑا۔ بچھڑا [ہ۔ ۱۔ مذ] جدائی۔
 بچھڑا (ب) بچھڑا۔ بچھڑا [ہ۔ ۱۔ ص ۱۱] کم شدہ۔ کھویا ہوا (۲) علحدہ
 جدا۔ الگ۔
 بچھڑا جانا۔ بچھڑا (ب) بچھڑا۔ جانا (ب) بچھڑا [ہ۔ ۱۔ ص ۱۱] جدا ہونا۔
 (۲) بچھڑے جانا (۳) کھو جانا۔
 بچھڑا (ب) بچھڑا [ہ۔ ۱۔ ص ۱۱] عجز کرنا۔ انکساری کرنا۔
 بہت آؤ بھگت کرنا۔
 بچھٹا (ب) بچھٹا (ناک) [ہ۔ ۱۔ مذ] ایک زہریلی اور مہلک دوا۔
 بچھڑو (ب) بچھڑو [ہ۔ ۱۔ ص ۱۱] ایک زہریلی جانور کا نام۔ کٹر و م
 عفر (۲) ایک پہاڑی پورا جس کا پتہ چھو جانے سے بچھڑو کے
 کاٹنے کی طرح جلن ہوتی ہے۔
 بچھڑو کا منتر نہ جانے باہمی میں ہاتھ دلیے۔ بچھڑو کا منتر یاد نہیں
 سانب کے بل میں ہاتھ ڈرے (مثیل) چھوٹا کام تو کر نہیں سکتے
 بڑے کام میں دخل دینے لگے۔
 بچھڑو (ب) بچھڑو [ہ۔ ۱۔ مذ ۱۱] بچھڑو (۲) نخڑی ایک قسم۔ چھوٹا پھڑا
 (۳) ایک زیور جو پاؤں کی انگیوں پر پہنا جاتا ہے (۴) ایک قسم
 کا تیز چار۔

بخشا کا باشندہ (۳) احادیث نبویہ کی ایک مشہور کتاب جو اپنے مؤلف امام بخاری کے نام سے موسوم ہے۔
 بخشت (ف۔ا۔نذ) ہمت۔ نصیب۔ بھاگ۔ قسمت۔
 بخشت آزمائی (ف) صفت تقدیر آزمانا۔ مقدر کا آزمانا۔ نصیب کا پرکھنا (۲) کوشش۔ سعی۔ جدوجہد۔
 بخشت آوری (ف۔نذ) (بختاوری) خوش نصیب۔ خوش قسمت۔
 بخشت آڑی (ف) صفت خوش نصیبی۔ خوش قسمتی۔
 بخشت اڑ گئے بلندی رہ گئی (مثل) (۱۱) ریاست یا جاگیر توجاتی ہی محض نام باقی رہ گیا ہے (۲) بگڑے میں پیسہ نہیں نواب بٹے پھرتے ہیں اس کی نسبت بولتے ہیں جو مجلسی میں ڈینگ مارے یا مزاجدار بننے کی کوشش کرے۔
 بخشت (لٹنا) محاورہ (بخت پھرنا۔ قسمت کا ناموافق ہونا۔
 بخشت برکشتہ (ف) صفت بد قسمت۔ بد نصیب۔
 بخشت پھرنا (محاورہ) قسمت خراب ہونا۔
 بخشت جلا۔ کم بخت۔ بد نصیب۔
 بخشت جواں (ف) صفت خوش نصیب (۲) ترقی کرنے والا۔
 بخشت جھکنا (محاورہ) طالع کا سیدھا ہونا۔ نصیب جاگنا۔
 بخشت حقہ (ف) صفت سویا ہوا نصیب۔ بگڑا ہوا اقبال۔
 بخشت رسا (محاورہ) اقبال مندی۔ خوش نصیبی۔
 بخشت رسیدہ (ف۔نذ) بد قسمتی۔ خراب قسمت۔
 بخشت سپہا ہونا (محاورہ) قسمت جاگنا۔ نصیب کا موافق ہونا۔
 بخشت ٹھکنا (محاورہ) نصیب جاگنا (۲) کمزور سے کی شادی ہونا۔
 بخشت واڑوں (واڑوں) (ف) صفت اوندھی قسمت۔ بگڑا ہوا نصیب۔
 بخشت یار (بختیار) خوش نصیب۔ نصیبے والا۔ اقبال مند۔
 بخشت باور سے (محاورہ) نصیب یا قسمت مددگار ہے۔ کامیاب ہے۔
 بخشت باری (بختاری) خوش بختی۔ خوش نصیبی۔
 بخنتوں جلی (۱) بد نصیب۔ بد قسمت عورت (۲) بے اولاد عورت (۳) رانڈ۔ بال بدھوا۔
 بخنتوں کے بلیا، پکائی کھیر ہو گیا (لیا) (مثل) بد نصیبی میں اچھا کام بھی خراب ہوجاتا ہے۔
 بخنتی (خ۔تی) (ف) (۱) ایک قسم کا بڑا اونٹ (۲) تیز رفتار اونٹ بخنتے (خ۔نذ) (ا۔و۔۱) بخنتے ہوئے چنوں کے دسے ہوئے دانے جن پر جھکا نہ ہو۔
 بخرا، بخرہ (خ۔را۔خ۔رہ) (ف) (۱) حصہ۔ بانٹ۔ تقسیم۔ ٹکڑا۔
 بخرا کرنا۔ حصوں میں تقسیم کرنا۔
 بخشت (ف) صفت (۱) معاف کرنے والا۔ بخشتے والا (۲) دینے والا معصی امرکات میں مستعمل ہے جیسے کچھ بخشت۔ تاج بخشت (۲) [نذ] حصہ۔ بخرہ (۳) عطیہ۔ وظیفہ (۴) اراکھانے کا پورا حصہ جو تقریبات میں بانٹا جاتا ہے۔ (۵) بخشتا کا امر۔

بخش دینا (۱) بلا معاوضہ دے دینا۔ صفت دے دینا (۲) معاف کر دینا۔ سزا نہ دینا۔
 بخشش (خ۔ش۔شا۔ش) (ف) (۱) مرث اگناہ کی معافی۔
 بخشش (خ۔ش۔ش) (ف) (۱) مرث [انعام عطیہ (۲) معافی بخشش۔ درگزر۔
 بخشش نامہ۔ مہر نامہ۔ وہ دستاویز جس کے ذریعے کوئی جائیداد بلا معاوضہ کسی کو دی جاتے۔
 بخشش (بخش۔نا) (ار۔مص) (۱) عطا کرنا (۲) معاف کرنا (۳) ثواب پہنچانا (بخشندہ) (خ۔ش۔ش۔وہ) (ف) صفت بخشتے والا۔ جمع بخشندگان۔
 بخشو (۱) معاف کر دو۔ پیچھا چھوڑیے۔
 بخشوانا (بخش۔وا۔نا) (ار۔مص) معاف کرنا۔ عفو کرنا۔
 بخشورنی ملی جو ہوا لندہ و لہری بھلا (ار مثل) اچھے آپ کی غیابت نہیں چاہیے۔ میں یوں ہی اچھا ہوں، اس موقع پر بولتے ہیں جب مخاطب بھلائی کے پردے میں برائی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو۔
 بخششی (خ۔شی) (ف) (۱) نذ (۱) فوج کی تنخواہ تقسیم کرنے اور حساب رکھنے والا عہدیدار جو کیداروں کی تنخواہ بانٹنے والا (۲) سپہ سالار جنرل۔
 بخششی خانہ۔ فوج کی تنخواہ تقسیم کرنے کا دفتر۔
 بخششی کا دھکٹا۔ سپہ سالار کا آشنا۔ زور آور کا دوست۔ رستم کا سالا۔
 بخششی کو توڑا کا یار۔
 بخششی گری۔ فوج کی تنخواہ بانٹنے کا عہدہ۔
 بخش (خ۔ا۔۱) (نذ) (۱) لاق۔ طبع۔ حرص (۲) بخشوسی۔ تنگ دلی۔
 بخشلا (خ۔لا) (ا۔۱) (نذ) بخیل کی جمع۔
 بخشور (خ۔ا۔۱) (نذ) وہ چیزیں جن کے جلانے سے خوشبو نکلتی ہے۔ عود۔ ٹوبان وغیرہ۔
 بخشیا تا (خ۔یا۔نا) (ار۔مص) بخیر کرنا۔ سینا۔
 بخیر انجام پانا (۱) محاورہ (۱) اچھا نتیجہ نکلنا۔
 بخیر گزری۔ اچھی طرح گزری۔
 بخیر یاد کرنا (۱) محاورہ (۱) بھلائی سے یاد کرنا۔
 بخیل (خ۔یل) (ع) صفت [بخوس۔ تنگ دل۔ جمع بخلاء۔
 بخیلی (ب۔خی۔لی) (ف) (۱) مرث [بخوسی۔ بخیل کی خاصیت۔
 بخیرہ (خ۔ہ) (ف) (۱) ایک قسم کی مضبوط سیبوں جو باس باس ہوتی ہے۔
 بخیرہ اڑھٹا (نا) (۱) کھانا (۲) راز فاش ہونا۔ فلعی کھلنا عجیب ظاہر ہونا (۳) (بخارا) طاقت ختم ہونا۔
 بخیرہ اڑھٹا (محاورہ) حقیقت ظاہر کرنا۔ فلعی کھولنا۔
 بخیرہ زن (گر) (ف) صفت [بخیرہ کرنے والا۔
 بخیرہ اڑھٹا (۱) ٹانگے کھولنا۔ (۲) راز فاش کرنا۔ حقیقت ظاہر کرنا۔

ب۔و

بدر (د۔۱) مرث (دہ پھوڑا جو چوڑوں میں نکلتا ہے) (۲) ساہوکاروں کی

اصطلاح (ذمہ)۔
 بد (ف۔ صفت) (۱۱) بڑا۔ خراب (۲) ناقص۔ کما (۳) شہر پر۔ فساد کی نیک کی ضد۔
 بد آموز (ف۔ صفت) بڑی باتیں سکھانے والا (۲) جس نے بڑی تعلیم پائی ہو۔
 بد آئین۔ بد اطوار۔ وہ شخص جسے کسی اصول کا پاس نہ ہو۔ خراب اصولوں والا
 بد اچھا بد نام بڑا (بمثل) رسوا اور بدنام ہونا بدکار ہونے سے بھی زیادہ خراب ہے۔
 بد اختر (ف۔ صفت) بد نصیب۔ بد قسمت۔
 بد اخلاق (ف۔ صفت) بد اطوار۔ ناشائستہ۔ نالائق۔ بڑی عادت والا
 بد اسلوب (ف۔ صفت) (۱) بے ڈھنگا۔ بڑی شکل (۲) بد چلن۔ بد کردار
 بد اصل (ف۔ صفت) (۱) پاجھی (۲) بد ذات۔ کم اصل
 بد اطوار (ف۔ صفت) بڑے جال چلن کا۔ بڑے ڈھنگوں کا۔
 بد اعتقاد (ف۔ صفت) جس کا عقیدہ خراب ہو۔ یقین نہ رکھنے والا
 بد اعمال (ف۔ صفت) بد چلن۔ بڑے کام کرنے والا۔ بد کردار
 بد اعمالی۔ بد چلنی۔ بد معاشی۔
 بد افعال (ف۔ صفت) بڑے کام کرنے والا۔ بد معاش۔
 بد امینی (ف۔ صفت) گڑبگڑ۔ انتشار۔ بغاوت۔
 بد انتظامی (ف۔ صفت) بد عملی۔ اندھیر۔ انتظام کی خرابی
 بد انجام (ف۔ صفت) جس کا خیر اچھا نہ ہو۔
 بد اندیش (ف۔ صفت) بڑا چاہنے والا۔ مخالف۔ دشمن
 بد باطن (ف۔ صفت) کینہ پرور۔ سیاہ دل۔ بڑے دل والا۔
 بد بخت (ف۔ صفت) بد نصیب۔ بد قسمت۔
 بد بگلا۔ نہایت شہریر۔ ظالم (۲) چڑھیل۔ ڈاکٹر۔
 بد بو۔ بڑا بڑا خراب بو۔ خوشبو کی ضد۔
 بد بو آنا۔ کسی شے سے عفونت آنا۔ ناگوار بو پھیلنا
 بد بیزہیز۔ کھلنے پینے میں پرہیز نہ کرنے والا بے احتیاط۔
 بد بیزہیزی (۱) بے احتیاطی۔ بے اعتدالی (۲) مجازاً [بفضل خیرچی
 بد بتر (ف۔ صفت) زیادہ خراب۔ بہت بڑا۔ بہت خراب۔
 بد بختیز (ف۔ صفت) گستاخ۔ بھوسہ بڑ۔ بد سیلفر
 بد بختیزی (ف۔ صفت) بد سیلفگی۔ پھوسہ بڑیں۔ گستاخی۔
 بد بختیز (ف۔ صفت) خیر بخت۔ بد بختیز
 بد جا توڑ۔ سوڑ۔ ختم بڑ۔
 بد چشم (ف۔ صفت) حاسد۔ لالچی۔ وہ شخص جس کی نگاہ دوسروں کی دولت پر ہو۔ خاص کر غورتوں پر۔
 بد چلن (ف۔ صفت) بد اطوار۔ بدکار۔ بد وضع۔ بڑے چال چلن والا۔
 بد چلنی۔ بد وضعی۔ بد کرداری۔ بد اعمالی۔ بد کاری۔
 بد حال (ف۔ صفت) بڑی حالت والا۔ بد حیثیت۔ بد بخت۔
 بد حالی (ف۔ صفت) بد بختی۔ بڑی حالت۔
 بد حواس (ف۔ صفت) (۱) بے ہوش بے حواس (۲) حیران پریشان

بد حواسی (ف۔ صفت) گھبرائے۔ پریشان (۲) بے عقلی۔ کم عقلی
 بد خیرات (ف۔ صفت) بڑی اطلاع۔ موت کی خبر
 بد خصال (ف۔ صفت) [ف۔ صفت] بڑی عادت والا۔ بد مزاج۔ بد
 بد خط (ف۔ صفت) وہ شخص جس کا خط خراب ہو۔
 بد خطی (ف۔ صفت) بڑی لکھائی۔
 بد خلق (ف۔ صفت) بد مزاج۔ اگھڑ۔ بڑے اخلاق کا۔
 بد خوات (ف۔ صفت) بڑی خصلت والا۔
 بد خواب (ف۔ صفت) (۱) بڑا سپنا دیکھنا (۲) اختلاام ہونا۔
 (۳) نیند اچھٹ جانا۔
 بد خوابی (ف۔ صفت) ڈر ڈرنا خواب (۲) اختلاام۔ بے حسنی۔ نیند نہ آنا
 بد خواہ (ف۔ صفت) بڑا چاہنے والا۔ دشمن۔ بیری۔ مخالف۔
 بد خواہی (ف۔ صفت) دشمنی۔ بیری۔ مخالفت۔
 بد دعوا (ف۔ صفت) کرنا (محاورہ) کو سنا دینا۔
 بد دعوا لکنا (محاورہ) کسی کے کوٹے کا اثر ہونا۔
 بد دعوا لینا (محاورہ) کوٹے کا مستحق ہونا۔
 بد دل (ف۔ صفت) (۱) ناخوش۔ ناراض (۲) دل برداشتہ
 بد دلی (ف۔ صفت) (۱) امید (۲) خاموشی۔ ناراضگی۔ بزدلی۔
 بد دماغ (ف۔ صفت) (۱) چڑھنا۔ ناک چڑھنا۔ نازک مزاج (۲) مغز کھنڈی
 بد دماغی (ف۔ صفت) (۱) مغز۔ کھنڈ (۲) نازک مزاجی۔ چڑھنا۔ پن۔
 بد دیانت (ف۔ صفت) خیانت کرنے والا۔ دغا باز۔ بے ایمان۔
 بد دیانتی (ف۔ صفت) (۱) خیانت۔ دغا بازی۔
 بد ذرات (ف۔ صفت) کینہ۔ کم ذات (۲) شوخ۔ شہریر (۳) سفد۔ پاجھی۔
 بد ذیاتی (ف۔ صفت) شہریرت۔ کینہی۔ پاجھی پن
 بد ذہابی (ف۔ صفت) (۱) محاورہ شہریرت پر آمادہ ہونا۔
 بد ذائقہ (ف۔ صفت) بد مزہ۔ جس کا مزہ خراب ہو۔
 بد ذوق (ف۔ صفت) بد مذاق۔ جس کی پسند اچھی نہ ہو۔ غیر معیاری
 چیزوں کو پسند کرنے والا۔
 بد ذہن (ف۔ صفت) کند ذہن۔ کوڑ مغز۔ بخی۔
 بد راہ (ف۔ صفت) بڑے راستے پر چلنے والا۔ بد وضع۔ بد چلن۔ بد کار۔
 گراہ۔
 بد رنگ (ف۔ صفت) (۱) وہ گھوڑا جو رنگ میں پاؤں نہ رکھنے لے
 (۲) شہریر۔
 بد رنگ (ف۔ صفت) کینہ بڑی خصلت والا۔ بد سرشت۔
 بد رنگ (ف۔ صفت) (۱) خراب رنگ کا (۲) رنگ اڑا ہوا تاش
 کا وہ پتہ جو بازی کے رنگ کا نہ ہو۔
 بد رو (ف۔ صفت) وہ گھوڑا جو بڑی طرح چلے۔
 بد روز (ف۔ صفت) بد بخت۔ مصیبت زدہ۔
 بد روزگار (ف۔ صفت) جس کا زمانہ نا موافق ہو۔ بد نصیب۔ بد قسمت۔
 بد زبان (ف۔ صفت) بد کلام۔ گستاخ۔ گالی گلوچ بکنے والا۔
 بد زبیب (ف۔ صفت) بے ڈول۔ نازبیا۔

بد ساعت اف۔ صف، منحوس گھڑی
 بد سرشت اف۔ ا۔ صف، بد طبیعت۔ خراب طبیعت کا۔
 بد سگال اف۔ صف، بد خواہ۔ بڑا چاہنے والا۔
 بد سگالی اف۔ صف، بد خواہی۔ بڑا چاہنا۔
 بد سلوکی اف۔ صف، بڑا بڑتاؤ۔ بڑی طرح پیش آنا۔
 بد سے بدنام بڑا مثل آبد ہونے سے بدنام ہونا بڑا ہے۔
 بد سیرت اف۔ صف، بڑی عادت والا۔
 بد شکل اف۔ صف، بڑی صورت والا۔ بد صورت۔
 بد شکونی اف۔ صف، انحوست۔ بد فالی۔
 بد صورت اف۔ صف، بڑی صورت والا۔ بڑی شکل والا۔ بد شکل
 بد صورت کرنا۔ صورت بگاڑ دینا۔ شکل بگاڑنا چہرہ بگاڑنا۔
 بد صورتی اف۔ صف، بڑی صورت۔ خراب شکل
 بد طالع اف۔ صف، بد نصیب۔ بد قسمت
 بد طرازی اف۔ صف، بے دھنگا پن۔ مصیبت۔ بڑی روش
 بد طبیعت اف۔ صف، بڑی عادت والا۔ بد خلعت۔ بد مزاج
 بد ظن اف۔ صف، اشکی۔ بد گمان
 بد عقیدہ اف۔ صف، جس کا عقیدہ ٹھیک نہ ہو۔
 بد عمل اف۔ صف، گناہ گار بظہار کار۔ بڑے کام کرنے والا۔
 بد عملی اف۔ صف، اندھیر۔ بد نظمی۔ بد انتظامی۔
 بد عنوان اف۔ صف، رشوت خور۔ میرا بچھری کرنے والا۔ بد قماش
 بد اظہار۔
 بد عہد اف۔ صف، بے وفا، قول سے پھر جائے والا۔ وعدہ خلاف۔
 بد عہدی اف۔ صف، بے وفائی۔ وعدہ خلافی۔ دغا بازی
 بد فرجام اف۔ صف، وہ شخص جس کا انجام بچیر نہ ہو۔
 بد فعل اف۔ صف، بد کار۔ اعلیٰ باز۔
 بد فعلی اف۔ صف، بد کاری۔ حرام کاری۔ بد چلنی۔ بد کرداری۔
 بد قطع اف۔ صف، بے ڈھنگا۔ بد صوت۔ بد شکل۔
 بد قرار اف۔ صف، ادھو کا دسے کر دوسرے بٹورنے والا ۱۲۱ ہمیشہ
 بارنے والا جواری ۱۳۱ بد طبیعت ۱۴۱ شہر بے
 بد قماش اف۔ صف، بد چلن۔ بد وضع۔
 بد قدم اف۔ صف، منحوس
 بد کار۔ زنا کار۔ فاسق۔ بد چلن۔ بد کردار
 بد کاری اف۔ صف، زنا کاری۔ حرام کاری۔ بد چلنی۔ بد فعلی۔ لواطت
 بد کردار اف۔ صف، بد عمل۔ بد چلن
 بد کیش اف۔ صف، بے دین۔ ۱۲۱ بد خو۔
 بد گمان اف۔ صف، بڑا گمان رکھنے والا۔ بڑا خیال رکھنے والا۔ بظن۔ شکی
 بد گمانی اف۔ صف، بے جا شبہ۔ بد نظمی۔ بد خیال فاسد۔
 بد گو اف۔ صف، گایاں کہنے والا۔ بڑی باتیں کہنے والا۔
 بد گوشت اف۔ صف، وہ زائد گوشت جو کسی مادہ فاسد کی وجہ
 سے پیدا ہو جاتا ہے۔

بد گوہر۔ بد ذات۔ بد اصل۔ کینہ
 بد گوئی اف۔ صف، غیبت۔ جھگڑی۔ بڑائی۔ جھوٹ۔
 بد گہرات۔ صف، بد اصل۔ بد سرشت۔ شہر بے گھوڑا۔
 بد لحاظ اف۔ صف، بے شرم۔ بے حیا۔ گستاخ
 بد لحاظی اف۔ صف، بے شرمی۔ بے حیائی۔ حفظ مراتب کا خیال نہ رکھنا
 گستاخی۔
 بد لگام اف۔ صف، وہ گھوڑا جو لگام کو نہ مانے۔ بے قابو ۱۲۱ مجازاً
 بے ادب منہ پھٹ۔
 بد لگامی کرنا (مجادرہ) گستاخی اور سرکشی کرنا ۱۲۱ منہ پھٹ ہونا ۱۳۱ وہ گھوڑا
 جو لگام کو نہ مانے۔
 بد لہجہ اف۔ صف، بد آواز۔ بد الحان۔
 بد مال اف۔ صف، جس کا نتیجہ اچھا نہ ہو۔
 بد مذہب اف۔ صف، بے ایمان۔ بد پیش۔ بد طریق۔
 بد مزاج اف۔ صف، چڑچڑا۔ غضبور۔ تند خو۔
 بد مزاجی اف۔ صف، متشدد۔ بڑی تند خوئی۔ چڑچڑاپن۔
 بد مزگی اف۔ صف، بد ذائقہ پن ۱۲۱ رنجش۔ مخالفت۔
 بد مزہ اف۔ صف، بے سواد۔ بد ذائقہ۔
 بد مزہ ہونا (مجادرہ) بے ذائقہ ہونا ۱۲۱ اخفا ہونا۔ تشرش رو ہونا۔
 بد مست اف۔ صف، ۱۱۱ مدہوش۔ بے ہوش۔ مست۔ نشے میں چمڑ۔
 ۱۲۱ پرشہوت ۱۳۱ شہر بے
 بد مستی اف۔ صف، ۱۱۱ مدہوشی ۲ شہوت پرستی ۱۳۱ شرارت۔
 بد معاش اف۔ صف، وہ شخص جس کی روزی برسے کاموں پر منحصر
 ہو ۱۲۱ حرام خور۔ شہر بے لچا۔
 بد معاشرتی اف۔ صف، متشرارت۔ حرام خواری۔ بد ذاتی۔ بد چلنی۔
 بد معاملی اف۔ صف، بے ایمانی۔ لین دین کی صفائی نہ رکھنا ۱۳۱ بد عہدی
 کھوٹا پن۔
 بد معاملہ اف۔ صف، ۱۱۱ لین دین کا کھوٹا۔ بے ایمان۔ بد دیانت ۱۲۱ بد عمد
 بد نام اف۔ صف، رسوا۔ وہ شخص جس کی خراب شہرت ہو۔
 بد نام کنندہ۔ کون سے چند مثل ایک ناموں کو بد نام کرنے والا۔
 بد نامی۔ رسوائی۔ ذلت۔ بڑی شہرت۔
 بد نامی اٹھانا (مجادرہ) رسوائی برداشت کرنا۔
 بد نامی کا ٹوکرا۔ رسوائی کا الزام۔ بد نامی کا سبب۔ رسوائی رنج۔
 بد نامی کا بیٹکا۔ رسوائی کا داغ۔
 بد نامی سمیٹنا (مجادرہ) رسوائی کا چھپانا یا دور کرنا ۲۱ رسوائی محول
 لگنا۔ بد نام ہونا۔
 بد نسل اف۔ صف، خراب نسل کا۔ کینہ۔ بد اصل۔
 بد نصیب اف۔ صف، کم بخت۔ بد قسمت۔
 بد نظر (بد نگاہ)۔ بڑی نظر سے دیکھنے والا۔
 بد نظر سے دیکھنا (مجادرہ) بڑی نگاہ سے یا نفسانی خواہش کے ارادے
 سے گھورنا۔ ۱۲۱ دشمنی کی نگاہ سے دیکھنا۔

بدھ ڈونڈ۔ قتل کی سزا۔

بدھ ۵۱۔ ۱۔ مٹ (۱۱) خدا پر پیشہ ۲۱ چاند نمبر ۵۰ ما (۳۱) وضع طور۔ طہب (۴) اچھے ستاروں کا ملنا (۵) جوڑ۔ میزان۔ حساب کا ٹھیک بیٹھا۔
 بدھ کھانا۔ بدھ ملنا (محاورہ) میزان درست ہونا (۲) اتفاق رائے ہونا۔
 (۳) بات قرار پا جانا (۴) زاچھہ مطابق ہونا (۵) کام بن جانا۔
 بدھ ملانا (محاورہ) ختم پتیری ملانا (۲) میزان کا مقابلہ کرنا (۳) موافقت پیدا کرنا۔ قیمت لگانا۔
 بدھ اس ۱۔ ماز۔ عقل سندا آدمی مرد دانا (۲) سیارہ عطارد (۳) چہار شعبہ (۵) خدا شناس۔

بدھ وا اب۔ دھا۔ وا (۵)۔ ۱۔ مٹ (۱۱) سیاہ کی مبارک باد۔ سیاہ کا انعام (۲) نعمت عیش شادمانی (فی)
 بدھانی آبت۔ دھا (۱)۔ ۱۔ مٹ (۱۱) خوشی کا گیت۔ شادمانہ۔
 (۲) خوشی (۳) مبارک باد (۴) وہ انعام جو بچہ پیدا ہونے کی خوشی میں ملازمین وغیرہ کو دیتے ہیں۔

بدھانی ڈینا۔ مبارک باد دینا۔
 بدھنا (بدھ۔ نا) (۵)۔ ۱۔ مٹ (۱۱) ٹوٹی والا برتن۔

بدھنا (بدھ۔ نا) (۵)۔ ۱۔ مٹ (۱۱) بھینسا۔ پیوست ہونا (۲) سواخ ہونا۔
 بدھنی (بدھ۔ نی) (۵)۔ ۱۔ مٹ (۱۱) مٹی کی ٹوٹی دار گٹھا۔
 بدھو (بدھ۔ دھو) (۵)۔ ۱۔ مٹ (۱۱) تادان مورکھ۔ کم عقل۔

بدھو (بدھ۔ وا) (۵)۔ ۱۔ مٹ (۱۱) بیڑہ۔ رائٹ۔ ودھوا۔
 بدھی (بدھ۔ دھی) (۵)۔ ۱۔ مٹ (۱۱) پھولوں کا ہارم تلوار کا آڑا زخم (۲) پچی یا کوڑے کی مار کا نشان (۳) ہکا جو گلے میں ڈالتے ہیں (۵) گلے میں پینے کا ایک زلیور (۶) چٹنے کا ڈھول جس کے ذریعے برتنے کو گھماتے ہیں۔ (۷) استر تیز کرنے کا چرٹ۔

بدھیال پڑنا (محاورہ) اچھوٹک کے نشان پڑنا۔
 بدھیال ڈالنا (محاورہ) مار مار کر کھال پر چوٹ کے نشان ڈالنا۔
 بدھنی (بدھ۔ دھی) (۵)۔ ۱۔ مٹ (۱۱) دانائی۔ عقل۔ سمجھ۔ فہم۔ گیان۔
 بدھیال (بدھ۔ یا) (۵)۔ ۱۔ مٹ (۱۱) آختہ بیل۔ ٹوٹے کھلا ہوا بیل (۲) دلخند گنا (۳) نامرد۔ پھللا۔ خوجہ۔

بدھیال پھینکا (محاورہ) اچھوٹے بیل کا بیٹھ جانا (۲) نقصان ہونا۔ دیوار کھینکا۔
 بدھیال ہوجانا۔

بدھیال کرنا (محاورہ) آختہ کرنا۔ خسی کرنا۔ نامرد کرنا۔
 بدھیال مری تو مری اگر تو دیکھا (ایتھل) تھوڑی آسائش کے لیے زیادہ نقصان اٹھانا۔ تھوڑی تفریح کے لیے زیادہ کھانے کی پروا نہ کرنا۔
 بدھی۔ بدھی (بدھی۔ ای۔ ب۔ دی) (۵)۔ ۱۔ مٹ (۱۱) چاند کے بیٹے کے آخری چند دن

بدھی (بدھی۔ ای۔ ب۔ دی) (۵)۔ ۱۔ مٹ (۱۱) برائی۔ بدخواری (۲) غیبت
 بدھی (بدھی۔ ای۔ ب۔ دی) (۵)۔ ۱۔ مٹ (۱۱) برائی۔ بدخواری (۲) غیبت کرنا۔
 بدھی کرنا (محاورہ) برائی پر آمادہ ہونا۔ دستہ پی کر کر باندھنا (۲) سرکشی کرنا۔
 بدھی کرنا (محاورہ) برائی کرنا۔ دمی کرنا (۲) تکلیف دینا۔ ستا (۳) غیبت کرنا۔
 بدھی (بدھی۔ ای۔ ب۔ دی) (۵)۔ ۱۔ مٹ (۱۱) واقفیت۔ علم۔ ہنر۔ (۲) چالائی۔ دھوکا۔
 چال (۳) علم کی دیوی (۴) جادو۔ ٹوٹا۔ شعبہ بازی۔

بدن (بدن۔ یب۔ دن) (۱)۔ ۱۔ مٹ (۱۱) تن۔ جسم۔ اندام (۲) شرم گاہ۔ ستر۔ جمع بدن
 بدن آلو کرنا (محاورہ) ماستے مارتے جسم پر نیل ڈال دینا۔
 بدن اند سے پھوڑا ہونا (محاورہ) اسارا جگر ڈھکنا۔

بدن بگر پھلانا (محاورہ) جذام یا کوڑھ ہو جانا۔
 بدن پاک کرنا (محاورہ) بدن سے نجاست دھونا۔
 بدن پر لوی نہ ہونا (محاورہ) بہت ڈبلا ہونا۔

بدن پر نہیں لٹپان کھائیں البتہ (ایش) ایشی میں امیرانہ ٹھاٹھ۔
 بدن چھل جانا (محاورہ) تمام جسم پر پھوڑے پھسی یا گرمی دانے نکلتا۔
 بدن پھیکا ہونا (محاورہ) پینڈا گرم ہونا۔ بخار ہونا۔ حرارت ہونا۔

بدن بچھڑا ہونا (محاورہ) بدن اکڑ جانا۔
 بدن ٹوڑنا (محاورہ) انگریزوں میں لینا (۲) ورزش کرنا۔
 بدن ٹوٹنا (محاورہ) اعضا ٹھکنے ہونا۔ کسمپاہت ہونا۔

بدن چلنا (محاورہ) بہت تیز بخار ہونا۔
 بدن خزانہ (محاورہ) شرم سے جسم کو سکیر ٹانا۔
 بدن بھڑ بھڑ ہونا (محاورہ) بہت تلک جانا۔

بدن ساچے میں ڈھلنا (محاورہ) بدن کا موزوں ہونا۔ بدن کے ہر عضو کا موزوں اور خوبصورت ہونا۔
 بدن سفینا (محاورہ) جسم میں سنسنی پیدا ہونا۔ روکنے کھڑے ہونا۔

بدن سوکھ کر کناٹا ہونا (محاورہ) بہت ڈبلا ہونا۔
 بدن سے جنگاں اڑنا (محاورہ) سخت گرمی محسوس کرنا۔
 بدن کا کپڑا۔ پیننے کا کپڑا۔ پینتا ہوا کپڑا۔

بدن کو خندانہ لگنا (محاورہ) کھانے پینے سے بدن پر تازگی اور توانائی نہ آنا۔ غذا کا جزو بدن نہ ہونا۔
 بدن گدراٹا (محاورہ) جسم کا ترقی تازہ ہونا۔
 بدن کھل جانا (محاورہ) بہت لاغر ہو جانا۔

بدن تلوانا۔ جسم کی مالش کرنا۔
 بدن میں آگ لگنا (۱) بہت گرمی محسوس ہونا (۲) نہایت غصہ آنا۔
 بدن میں جان نہ ہونا (محاورہ) کمال ناطق اور وضعف ہونا۔

بدن میں مزہ چوس لگنا۔ غصے کی شدت سے بے تاب ہونا بھنجھلانا۔
 بدن میں دم نہیں نام زور اور خاں (ایش) ان صفات سے موسوم جو اس میں موجود نہ ہوں یعنی ماسنے والے کے متعلق کہتے ہیں۔
 بدنا (بد۔ نا) (۵)۔ ۱۔ مٹ (۱۱) شرط لگانا۔ اقرار کرنا (۲) خاطر میں لانا۔ سمجھنا

بدنی (بدنی۔ ای۔ ب۔ دی) (۵)۔ ۱۔ مٹ (۱۱) جسمانی بدن سے متعلق
 بدو (بد۔ و) (۵)۔ ۱۔ مٹ (۱۱) کسی چیز کا آغاز۔ ابتدا۔ شروع (۲) جنگل۔ صحر
 بدو (بد۔ و) (۵)۔ ۱۔ مٹ (۱۱) بدوی۔ عرب کے خانہ بدوش لوگ (۲)

[صف] بدین۔ بدنام کرنا۔ رسوا کرنا۔
 بدوی (بدوی۔ ای۔ ب۔ دی) (۵)۔ ۱۔ مٹ (۱۱) صحراؤں میں رہنے والا عرب۔ خاندان
 عرب (۲) [صف] صحرا کا جنگل سے متعلق
 بدھ اس ۱۔ ۱۔ مٹ (۱۱) قتل۔

ب۔ ر

بڑا (۵۔ ۱) [مذ] انتخاب، پسند، چناؤ (۲) منگیتہ پتی۔ شوہر (۲) کپڑے
ر کی چوڑائی۔ عرض (۳) اتنا۔ مراد (۴) دعا۔ آئینہ بڑ۔ برکت
برجواک (۱) اجوان۔ بیابان کے لائق (۲) بھیک جوڑ۔ دولہا دہسن کا
درست جوڑا۔

بردار۔ چوڑائی رکھنے والا (کپڑا)
بردگھوا۔ شادی سے قبل سسرال میں منگیتہ کی رونمائی

برک دینا۔ شادی کر دینا۔
برک مانگنا (۱) دعا چاہنا۔ مراد مانگنا۔ منگنی کے بعد بیٹی والوں کا سیاہ کا تقاضا
برک آف (۱) اوپر۔ (۲) باہر۔ بیرون (۳) ایاد (حفظ ہزار کے ساتھ (۴)
بلند۔ غالب (۵) بعض کلمات کے شروع میں ناند بھی ہوتا ہے جیسے
برعکس۔ برحستہ وغیرہ (۶) [مذ] پھل۔ ٹم (۷) کپڑے کی چوڑائی (۸) چھائی
سینہ (۹) [صف] اٹھانے والا رے جانے والا (مرکبات میں بطور لائق
مستعمل ہے۔ جیسے نامہ بر۔ دل بڑ

برابر (ف) نصف، پورا کرنے والا۔ سے جلنے والا۔
برآشفقتہ (ف) [صف] غصے سے بھرا ہوا۔ ناراض۔
برآمد (۱) باہر آنے کا فعل۔ بطور۔ طلوع۔ نمود (۲) روانگی۔ باہر جانا (۳)
مال کی نکاسی وہ اشیاء جو بیرونی ممالک کو بھیجی جاتیں۔ ایکسپورٹ (انک
(Export) (۳) خرچ۔ مصارف (۴) وہ زمین جو دریا کے بہت جلنے سے
سہ نکل آتی ہے۔
برآمد کرنا (مجاورہ) کھوج۔ لگانا۔ نکانا۔ ظاہر کرنا (۲) ملکی مال بیرونی ممالک
کو بھیجنا (۳) تنخواہ (روپیہ) انک سے لانا۔
برآمدگی (ف)۔ منت۔ وصولی۔ سمرخ (۲) نکاسی (۳) پھر سے مسروقہ مال
کی واپسی۔

برآمدہ (۱) مکان کے سامنے بغیر دروازوں کے کرا (۲) پیش کا (۳) ایوان (۳)
برآمدگی (ف)۔ منت۔ وصولی۔ سمرخ (۲) نکاسی (۳) پھر سے مسروقہ مال
کی واپسی۔
برآمدہ (۱) مکان کے سامنے بغیر دروازوں کے کرا (۲) پیش کا (۳) ایوان (۳)
برآمدگی (ف)۔ منت۔ وصولی۔ سمرخ (۲) نکاسی (۳) پھر سے مسروقہ مال
کی واپسی۔

برانداز (ف)۔ صف۔ آؤلی وغیرہ کا پردہ۔ نقاب (۲) اوپر ڈالنے کا کپڑا۔
برازنغ۔ (۳) پائیدان۔ پائیدار (۴) بریاد کرنے والا۔
برایختہ (ف)۔ صف۔ پھر لگانا ہوا۔ مشتعل۔ طیش میں بھرا ہوا۔
برایختہ کرنا (ف)۔ صف۔ پھر لگانا۔ غصہ دلانا۔ اکسانا۔ آدہ کرنا۔
بربا (مجاورہ) پاؤں پر قائم۔ برقرار۔ ٹھہرا ہوا
بریا کرنا۔ قائم کرنا۔ چمانا۔ اٹھانا۔
برکرت (ف)۔ صف (زیادہ بہتر۔ افضل۔ زیادہ بلند۔

پدیا رہتی (۵)۔ صف (۱) ویدیا رہتی۔ طالب علم۔ متعلم۔ علم کا خواہش مند۔
پدیس (ب)۔ دین (۵)۔ مذ (۲) پدیس، نگر۔
پدیس (ب)۔ دے۔ سی (۵)۔ صف (۱) غیر ننگ کا دوسرے دین کا۔
[مذ] پدیس۔ مسافر۔ اجنبی۔

پدیس (ب)۔ دین (۵)۔ صف (۱) بنانے والا۔ مؤجد (۲) نادر (۳) نادر
[مذ] (۴) انوکھا۔ نادر (۵) ایک علم جس میں کلام کی لفظی اور معنوی
خوبیاں بیان کی جاتی ہیں۔

پدیہ (ب)۔ دین (۵)۔ صف (۱) اصحیح (۲) برحستہ۔ منطق کی
اصطلاح میں وہ بات جس کے لیے دلیل کی ضرورت نہ ہو۔
پدیہ گوئی۔ برحستہ کہنا۔ بے غور و فکر کے کہنا۔ بر عمل کہنا۔
پدیہ (ب)۔ دی (۵)۔ صف (۱) وہ بات جس میں دلیل کی حاجت
نہ ہو۔ ظاہر۔ روشن۔ الم تشریح۔

پدیہ (ب)۔ دی (۵)۔ صف (۱) وہ بات جس میں دلیل کی حاجت
نہ ہو۔ ظاہر۔ روشن۔ الم تشریح۔

ب۔ ڈ

بڈا (نا)۔ ڈا (نا)۔ وہ [مض] (۱) اجلا وطن کرنا۔ نکال دینا (۲) چیرنا پھیرنا
کھڑے کھڑے کرنا (۳) بے ترتیب کرنا خراب کرنا۔
بڈھا (ب)۔ ڈھا (۵)۔ مذ (۱) لیما۔ جوڑا گڑھا۔ کھائی۔
بڈھا لگانا (۱) کھدائی کا کام شروع کرنا (۲) نقب لگانا۔
بڈھا بڈھا۔ ڈھا (۵)۔ صف (۱) مذ (۲) بڑھا۔ عمر رسیدہ شخص۔
بڈھا پھونس۔ بہت بڑھا۔ سال خوردہ۔ بہت کمزور۔
بڈھا ٹھڈا۔ بہت بوٹھا۔
بڈھڑا۔ بڈھڑی۔ بڈھ۔ ڈا، بڈھ۔ ڈی (۵)۔ مٹ (۱) ایک قسم کی
خوشبودار گھاس۔
بڈھی (بڈھ۔ ڈھی (۵)۔ صف (۱) بڈھی کی تائینٹ۔ بڈھی (۲) مٹ)

بڈھی عورت
بڈھی کھوڑی لال گام (بیش) بڑھاپے میں جوانوں کی طرح بناؤ سنگار
کرنا۔ اس موقع پر بولتے ہیں۔ جہاں کوئی شخص بڑھاپے میں جوانی
کی حالت رکھے۔
بڈھے کی مرے نہ جوڑو، ہالے کی مرے نہ ماں (بیش) بڈھے کی
بیوی اور بچے کی ماں مرنے سے بڑی مصیبت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔

ب۔ ذ

بڈل (ع)۔ (۱) مذ (۲) انعام بخشش۔ جوڈو سجا۔
بڈل (بڈ۔ ل)۔ (ع)۔ (۱) مذ (۲) لطیف۔ چھلا۔ خوش طبعی کی بات۔
بڈل (بڈ۔ ل)۔ (ع)۔ (۱) مذ (۲) لطیف۔ چھلا۔ خوش طبعی کی بات۔
بڈل (بڈ۔ ل)۔ (ع)۔ (۱) مذ (۲) لطیف۔ چھلا۔ خوش طبعی کی بات۔

بزرگی ات۔ مہش، افضیلت، عمدگی، بڑائی، بزرگی، بہتری۔
 برجستہ ات۔ صفت، بروقت ہے ساختہ، بر محل، بے تکلف۔
 برحق ات۔ صفت، سچ، ٹھیک، درست، صحیح، سچا۔

برخاست ات۔ صفت، ملازمت سے علیحدہ، بر طرف، موقوف، بختم۔
 برخاست کرنا (۱۱) علیحدہ کرنا، موقوف کرنا (۲۱) ختم کرنا، ملتوی کرنا۔
 برخاستگی ات۔ مہش، بر طرفی، موقوفی، رخصت۔

برخلاف ات۔ صفت، اخلاف، بر عکس، الٹا، مخالف۔
 برخود غلط ات۔ صفت، اپنے متعلق غلط رائے قائم کرنے والا، شیخی خورا
 برخوردار ات۔ صفت، (۱۱) اقبال مند، صاحب نصیب، (۲۱) زندگی کا

بھل کھانے والا، (۳۱) بیٹا، فرزند۔

برخوردار ات۔ بیٹے کی طرح، سعادت مندی سے۔

برخورداری ات۔ مہش، سعادت مندی، اولاد جیسی فرما برداری (۲)
 اولاد کی کثرت۔

بردار ات۔ صفت، رکھنے والا، اٹھانے والا، برواشقن کا اسم فاعل مرکبات
 میں مستعمل ہے، ایسی علم بردار، بلم بردار وغیرہ
 برداری ات۔ صفت، اٹھانے کا عمل، رکھنے کا عمل۔

برداشت ات۔ مہش، (۱) صبر، تحمل، تاب، (۲) جانوروں کی نگہبانی۔
 (۳) قرض پر سورا لینا، فصل اٹھانا

برداشت خانہ ات۔ مذ، وہ مکان جس میں مال و اسباب کھتے ہیں گویا
 برداشتہ دن۔ صفت، اٹھایا ہوا (۲۱) ہشایا ہوا (مرکبات میں جیسے
 دل برداشتہ۔

برداشتہ خاطر، برداشتہ دل ات۔ صفت، اُچھاٹ، بے دل، رنجیدہ
 گھرایا ہوا، آزرہ۔

بردوختہ ات۔ صفت، آسیا ہوا، مجرط ہوا۔

بردوش ات۔ مذ، کندھے پر۔

برزبان ات۔ صفت، زبان، حفظ، یاد

برزبان تبصیح و درول گا و خراف، مثل زبان پر اللہ کا نام اور دل میں
 بیوں اور گدھوں کا خیال، ظاہر میں نیک اور باطن میں بد، دل میں کچھ
 اور زبان پر کچھ۔

برسبیل ات۔ (ع) بہ طور۔

برسبیل تذکرہ۔ تذکرے کے طور پر۔

برسبب آثار، کھل کھلا، آشکارا۔

برسبب خواش، برسبب جنگ، لڑائی پر آمادہ۔

برسر فرزند آدم ہرچہ آید بگزد و ف۔ مثل انسان پر جو گزرتی ہے وہ
 اسے بھگت لیتا ہے، انسان پر جو مصیبت آتی ہے وہ گزرتی جاتی ہے
 برسبب کار۔ کام پر۔ ملازمت میں۔

برسر کوہ۔ پہاڑ کی چوٹی پر۔

برسر کس۔ (ف) صفت، کینگی پر آمادہ۔ فساد یا دشمنی پر تیار۔
 مخالف، دشمن۔

برسر مطلب ات۔ صفت، اصل مقصد پر۔

برطرف۔ برخاست۔ موقوف۔ جدا۔ علیحدہ۔

برطرفی۔ موقوفی۔ علیحدگی۔ معزونی۔

برعکس۔ برخلاف ات۔ امٹ، خلاف، مخالف۔

برعکس نہند نام زنی کا فوراً قبیل (اس شخص کی نسبت برتے ہیں جن
 میں وہ صفت نہ پائی جملے جس سے وہ منسوب ہو۔

برقرار ات۔ صفت، قائم، بحال، مستقل (۲) صحیح سالم، باقی، زندہ، موجود۔

برگرمیاں کار با د مشوار نیست ات۔ مقولہ، بخشش کرنے والوں کے لیے
 کوئی کام مشکل نہیں ہے۔

برگزیدہ ات۔ صفت، منتخب، چنا ہوا، پسندیدہ۔

برگشتگی ات۔ مہش، پھرنا، انحراف، بغاوت۔

برگشتہ۔ پھرا ہوا۔ مخوف، مخالف (۲) سرکش، باغی۔

برگشتہ آیام۔ برگشتہ اختر، برگشتہ طالع ات۔ صفت، بد قسمت، نصیب
 قسمت کا بیٹا۔

برلانا محاورہ، پورا کرنا، انجام کو پہنچانا (آرزو تمنا کے ساتھ)

بر عمل ات۔ موقع پر، اچھے وقت پر۔ برجستہ، مجوزوں، مناسب۔

بر ملا، کھلم کھلا، کھلے خزانے، علانیہ، مندرجہ۔

بر من منگر، ہر گم خورش بنگر ات۔ مثل امیری طرف دیکھ اپنی مہربانی کو
 دیکھ میرے گناہوں کا خیال نہ کر اپنی بخشش کا خیال کر۔

بر وقت ات۔ عین وقت پر۔ بر محل۔

بر و مند۔ پھل لانے والا۔ قائم حاصل کرنے والا، جب کسی دوسری
 لفظ کو مند کے ساتھ لاتے ہیں تو درمیان میں 'و' زیادہ کر دیتے ہیں
 جیسے تو مند۔

بر و مندی۔ کامیابی۔

بر و (ع) (۱) بد، (۲) خشکی، جنگل، بیابان۔

بر و اعظم۔ خشکی کا وہ بڑا حصہ جس میں بہت سے ملک ہوں۔

بر و صغیر ات۔ مذ، چھوٹا بڑا اعظم، مجازاً پاکستان اور بھارت۔

بر و بڑی آغ۔ صفت، خشکی کا زنگلی، جنگل۔

بر و بڑی فوج ات۔ مہش، خشکی پر لڑنے والی فوج

بر و (ع) (۱) مہش، آبی، بخشش۔

بر و (۱) مہش، (۲) عمدت کا اندام نہانی، فرج (۲) کپڑے کے اوپر کارداں۔

بر و (ب) (ع) صفت، تجراب نکما، ناقص، بد مزہ (۲) نازیبانہ، ناشائستہ۔

بر و (۳) بد ذات، خیر بر (۴) دشمن، مخالف، اچھا کی ضد۔

بر و آزار۔ دق کا مرض، سہل کا مرض۔

بر و اپنا (محاورہ) ملزم ہونا، مخالف بننا، دشمن ہونا۔

بر و اچھلا (۱) صفت، (۲) نیک و بد (۲) نازیبانہ، خلاف تمذیب (۳) سخت
 سست (۴) گالی گلوچ۔

بر و اچھلا آنا (محاورہ) اچھا بڑا جانا، سلفہ ہونا۔

بر و اچھلا کرنا (محاورہ) زنا کرنا، بد فعلی کرنا۔

بر و اچھلا کہنا (محاورہ) لعنت، ملامت کرنا۔ سخت سست کہنا (۲) اچھلا
 بر و اپنا اور کھوٹا پسیدہ وقت پر کام آتا ہے (مثل) وقت پر اپنی بڑی

اور معمولی چیز بھی کار آمد ثابت ہوتی ہے۔
 مورا جانا محاورہ کسی کی بُرائی کی خواہش کرنا جسد کرنا۔
 برا اُخال کرنا (محاورہ) مارنا پھینا۔ دُف کرنا۔ ستانا (۲) حال خراب کرنا تباہ
 کرنا۔ برباد کرنا۔
 بُرا زمانہ (محاورہ) بُرا آشوب وقت (۲) افلاس یا پریشانی کے دن (۳) مصیبت کا وقت۔
 بُرا سا مُتہ بنانا (محاورہ) چہرہ ایسا بنانا جس سے ظاہر ہو کہ کوئی بات ناگوار
 ہوتی ہے۔ چہرے سے ناگواری ظاہر ہونا۔
 بُرا کام (۱) بُرا ادب اور تہذیب کے خلاف حرکت۔ ناشائستہ فعل۔
 اخلاقی کے خلاف کام (۲) حرام کاری۔ زنا کاری۔
 بُرا کرنا (محاورہ) (۱) نقصان پہنچانا (۲) نامناسب فعل کرنا (۳) بدنام کرنا
 بُرا کہنے والے پر تین حرف مثل بُرا کہنے والے پر لعنت (تین حرف
 ل۔ ع۔ ن یعنی لعن بمعنی پھٹکار
 بُرا لکھا (۱) بُرا خیاب تقدیر (۲) بدخط
 بُرا لکنا (محاورہ) ناگوار معلوم ہونا۔ گراں گزرنہ۔ بدنام معلوم ہونا۔
 بُرا ماننا (محاورہ) خفا ہونا ناراض ہونا۔ آندہ خاطر ہونا۔ بگڑنا
 بُرا ماننا (محاورہ) (۱) فقہاً سمجھو یا بُرا پسند آئے یا نہ آئے۔
 بُرا وقت (۱) مذکلیف و مصیبت کا زمانہ۔ غریبی کا وقت۔
 بُرا ہو (دعا سے) ہر آفت آئے۔ مصیبت پڑے۔
 بُرے حالوں جینا۔ بُری حالت میں زندگی بسر کرنا
 بُرے دل سے (۱) اُسے پروائی سے (۲) ناخوشی سے ناگواری سے
 بُرے دن۔ مصیبت کے دن۔
 بُرے کی جان کو روزنا جبر و ستم اور ظلم پر صبر کرنا۔ ظالم کی شکایت کرنا۔
 بُرے پھین۔ بُری عادتیں۔
 بُرے وقت اڑے آنا۔ مصیبت کے وقت کام آنا۔ افلاس کی حالت
 میں مدد کرنا۔
 بُرے وقت کا کوئی مُشریک اساتھی نہیں (مثل مصیبت کی حالت میں
 ہمدردی کرنے والا کوئی نہیں۔
 بُرا بُرا (۱) بُرا (۲) صفت (۱) مساوی۔ ہمسرہ ہم عمر۔ ہم پایہ (۲)
 یکساں۔ مسطح۔ ہموار (۳) پورا (۴) سیدھا (۵) پہلو۔ بازو کنارہ۔ جانب
 مقابل۔ آگے (۶) ترتیب وار۔ مسلسل۔ بلاناغہ (۷) ایک ساتھ ایک
 دم۔ بے روک (۸) نصفاً نصفی۔ آدھا (۹) ہر وقت۔ ہمیشہ۔ سدا۔
 (۱۰) قریب۔ پاس۔ نزدیک (۱۱) بھرا ہوا۔ بُریز (۱۲) بے باقی (۱۳)
 ہم عمر (۱۴) ہم ترتیب۔ ہمسر (۱۵) نصفاً نصف (۱۶) پے درپے بار بار
 (۱۷) مد مقابل۔ خریف۔
 بُرا بُرا (محاورہ) امتحان میں ایک جیسے نمبر لینا (۲) دو کھلاڑیوں کا ایک
 جیسا رہنا۔ ہاجرت کا فیصلہ نہ ہونا
 بُرا بُرا (محاورہ) یکساں ہونا۔ قول میں برابر ہونا۔
 بُرا بُرا (محاورہ) اٹھنا (محاورہ) مشطرج کی بازی کا بغیر بار سے جیتنے
 ختم ہوجانا۔

برابر ہوا (۱) پہلو بہ پہلو۔ پاس پاس۔ قریب قریب (۲) مسلسل۔
 لگاتار۔ ترتیب وار۔ باقی عدہ (۳) نصفاً نصفی (۴) ساتھ ساتھ کھانا
 برابر پیش آنا (محاورہ) ایک جیسا ہونا اور کرنا۔
 برابر چھوٹنا۔ کشتی میں فریقین کا کسی کو ہرانہ سکنا۔
 برابر ہر برابر (۱) یکساں۔ مساوی (۲) بے باقی۔
 برابر سے نکلنا۔ قریب سے نکلنا۔
 برابر سے جواب دینا۔ ترقی ترقی جواب دینا۔ گستاخی سے جواب دینا۔
 برابر کا (۱) ہم قدر (۲) جوڑ کا۔ ہمسرہ ہم ترتیب (۳) صنف کا (۴) قریب کا (۵)
 ہم عمر۔ متقابل کا۔ جوڑ کا۔ (۶) یکساں۔ مساوی۔
 برابر کا بیٹا (۱) مذکورہ جوان بیٹا۔
 برابر کا جواب دینا (محاورہ) ہمسری کرنا۔ ترقی ترقی جواب دینا۔
 برابر کرنا (محاورہ) (۱) یکساں کرنا (۲) مطابق کرنا۔ ہم وزن کرنا (۳) بیانی
 کرنا۔ کئی بیٹھی دور کرنا۔ نصفاً نصفی (۴) شکایت رُفیع کرنا (۵) تباہ و
 برباد کرنا (۶) گنواٹا صرف کر دینا۔ ختم کر دینا۔ درست کرنا ترتیب دینا
 مسلسل کیے جانا۔ بلاناغہ کرنا۔
 برابر کی بیٹی (۱) منشا جملان لڑکی جو قد میں ماں کے برابر ہو۔
 برابر کی حکمران (۱) صفت (۲) ہم مرتبہ۔ ہم پایہ۔ ہمسرہ متقابل کا۔ جوڑ کا۔
 برابر کی جوڑ (۱) صفت (۲) برابر کی نظر۔
 برابر میں۔ ساتھ ساتھ۔ پاس پاس۔
 برابر نکلنا (محاورہ) ایک جیسا ہونا۔
 برابر والا۔ ہمسرہ۔ جوڑ کا۔ متقابل کا۔
 برابر ہونا (محاورہ) ایک سطح پر ہوجانا۔ بیانی ہونا (۲) یکساں ہونا۔ ہمسر
 ہونا (۳) ہم وزن ہونا (۴) اصناف ہوجانا (۵) اُسنے سُننے ہونا (۶)
 لبریز ہوجانا۔ (۷) ضائع ہوجانا۔
 برابر سی اب۔ راب۔ ری (۱) اُڑ۔ منٹ (۲) ہم چشمی ہمسری لنگر۔ مقابلہ۔
 (۳) ہمواری (۴) بے ادبی۔ گستاخی۔
 برابر ہی کرنا (محاورہ) انقل کرنا (۲) ہمسری کرنا۔ مقابلہ کرنا۔ گستاخی کرنا۔
 برات (۱) رات (۲) [ف۔ ہ۔ منٹ] (۳) حصہ۔ بجز (۴) فرمان۔ حکم نامہ (۵)
 وہ تحریر جس کے ذریعے تنخواہ ملے۔ اٹھب اشعبان کی چودھویں رات۔
 مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق اس رات ہر شخص کی عمر کا حساب اور
 رزق کی تقسیم ہوتی ہے۔
 برات عاشقان بر شاخ آہون مثل امید ہوموم ۱۰ موقوفہ پر بولتے
 ہیں جہاں مقصد بر آری کا امکان نہ ہو۔
 برات (۱) رات (۲) [ہ۔ ۱۰۔ منٹ] (۳) دولہا کی سواری کا جلوس (۴) انہ
 از دو حام (۵) گنجھڑ کی ایک بازی کا نام
 برات اترنا (محاورہ) براتوں کا کسی مقام پر ٹھہرنا۔
 برات بچھو دھونسا، عید بچھو ٹر (مثل) موقع گزر جانے پر کوئی بات
 یا کام کرنا۔
 برات چڑھنا۔ دولہا کا جلوس کے ساتھ دھن کے گھر جانا۔
 براتی (۱) رات (۲) [ہ۔ ۱۰۔ منٹ] دولہا کے ہمراہی۔

برائی آگے آنا محاورہ) برائی کی سزا ملنا کیے کی سزا جھگلتا۔

برائے اب۔ را۔ اے [ف حرف ربط] (۱۱) واسطے لیے (۲) وسیلے سے برکت سے۔ حدیث میں

برائے خدا۔ خدا کے لیے۔ فی سبیل اللہ۔

برائے مصلحت ان۔ صفت کسی بہتری کے لیے۔

برائے نام۔ صرف نام کے طور پر۔ یونہی۔ فرضی۔ صرف دکھاوے کیلئے

برایا اب۔ را۔ ابا [ع۔ ۱۰۔ مٹ] [بریتہ کی جمع۔ مخلوق۔ جہان۔ دنیا۔

برباد۔ ا۔ ف [صفت] تباہ۔ ویران۔ خراب۔ ضائع۔ تلف

بربادی ابر۔ با۔ دی [ف۔ ۱۰۔ مٹ] تباہی۔ ویرانی۔ خرابی۔

بربرانا ابر۔ رب۔ را۔ نا [ہ۔ مٹ] [کسی خشک پس بونی چیز کا کسی دوسری چیز پر پھینکنا۔

بربرائی ابر۔ رب۔ ری [ع۔ صفت] [۱۱] علاقہ بربراشمالی افریقہ سے

متعلق (۲) [مٹ] اس علاقے کا باشندہ (۳) [مٹ] اس علاقے کی بکری

بربرائی خانہ۔ بکریوں کے رہنے کی جگہ۔ باڑا۔

بربریت ابر۔ رب۔ ری بیت [ع۔ ۱۰۔ مٹ] وحشت۔ وحشی پن۔ خونخواری

بربط ابر۔ بط [ف۔ ۱۰۔ مٹ] ایک قسم کا ساز۔ عود۔

برکت اب۔ رت [ہ۔ ۱۰۔ مٹ] ہندوؤں کا روزہ۔

برکت (ہ۔ مٹ) ایک قسم کی ہماری جو جادو کا شت کے باعث

ہو جاتی ہے۔ کنوئیں سے پانی نکالنے والی رسی (۲) تسمر (۳) بدھی۔

کسی چلبلی چیز سے جسم پر ضرب کا نشان۔

برکت (س۔ ۱۰۔ مٹ) (۱) معیشت۔ وجہ معاش (۲) آمدنی (۳) مال

جامداد (۴) معانی زمین (۵) حق۔ ورثہ۔ انعام (۶) اجماع پر دوش کرنا والا

پڑتا (برکتا) [ہ۔ ۱۰۔ مٹ] طاقت۔ بل۔ زور (۲) بھروسا۔ امید (۳) حوصلہ

ہمت (۴) ایقت۔ استعداد (۵) وسعت۔ گنجائش (۶) مدد۔ اعانت

(۶) کارگزاری۔ عمل۔

برتاؤ۔ برتاؤ اور برتاؤ۔ اور۔ برتاؤ [ہ۔ ۱۰۔ مٹ] [۱۱] راہ رزم۔ میل جول [۱۲]

سلوک۔ طرز عمل۔ روش

برتنش (بر۔ تنش) [ہ۔ ۱۰۔ مٹ] وہ زمین جس میں چاول کی فصل کاٹ

لینے کے بعد گنا بویا جائے۔

برتن (بر۔ تن) [ہ۔ ۱۰۔ مٹ] ظرف۔ باسن۔ بھانڈا

برتن بھانڈے (ہ۔ مٹ) ظرف۔ بہت سے برتن۔

برتن سے برتن کھٹک ہی جاتا ہے۔ ایل کھڑدالوں میں کسی نہ کسی

بات پر تکرار ہو ہی جاتی ہے۔

برتن کھنڈا (محاورہ) مٹی کے ظرف کا وہ آواز دینا جس سے اس کا

ٹوٹا یا پکا ہوا معلوم ہو۔

برتنا اب۔ رت۔ نا [ہ۔ مٹ] [۱۱] کام میں لانا۔ استعمال کرنا (۲) تجربہ

کرنا (۳) خرچ کرنا (۴) ناپنا (۵) برتاؤ کرنا۔

برتھ ڈے (BIRTHDAY) [انگ۔ مٹ] یوم پیدائش۔ جنم دن۔

برتھ کنٹرول (BIRTH CONTROL) [برتھ کنٹ۔ رول] [انگ۔ مٹ] بچوں کی پیدائش کو قابو میں رکھنا۔ زیادہ بچے نہ ہونے دینا

ضبط تولید۔

برتیا (بر۔ ت۔ یا) [ہ۔ ۱۰۔ مٹ] [۱۱] برت رکھنے والا (۲) وہ کائنات کا جس کا

تنگان ناقابل تبدیل ہو۔

برتنے پر رہنا (محاورہ) بھروسے پر رہنا۔ نازاں رہنا۔

برتنتر (ہ۔ مٹ) ایک قسم کا جنگلی تہتر جس کا گوشت بہت لذیذ ہوتا ہے

برنج (Bridge) (بر۔ رنج) [انگ۔ ۱۔ مٹ] پل

برنج (ہ۔ ۱۰۔ مٹ) ستر کا علاقہ جس میں مٹھا۔ گولگل اور بندرا بن شامل ہیں

یہ کرشن جی کی پیدائش کا مقام ہے۔

برنج بھاشا۔ برنج بھاکا۔ برنج کی بولی چال۔ مٹھا اور بندرا بن کی زبان

برنج (ع۔ ۱۰۔ مٹ) [انگ۔ مٹ] (۱) راس یعنی ستارے کا مقام۔ دائرہ

آسمان کا نظری طور پر بارہواں حصہ۔ جمع۔ برنج۔

برنج آبی۔ تین برنجوں سے مراد ہے۔ برنج سلطان۔ برنج عقرب اور برنج

برنج آستی۔ برنج حمل۔ برنج اسد اور برنج قوس۔

برنج اسد۔ آسمان کا وہ حصہ جس میں چند ستارے مل کر شیر کی شکل میں

واقع ہیں اسد یعنی شیرا

برنج بادمی۔ تین برنجوں سے مراد ہے۔ برنج جوزا۔ برنج میزان اور برنج دلو

برنج تور (ع۔ مٹ) وہ آسمانی برج جس کی شکل ہیل کی سی ہوتی ہے۔

برنج جدی۔ بکری کی شکل کا آسمانی برج۔

برنج جوزہ (ع۔ مٹ) دو چوڑوں کی شکل کا برج۔

برنج گل۔ آسمان کے برنجوں میں سے پہلا برج جس کی شکل بیڑھے کی

سی ہوتی ہے جس دن آفتاب اس برج میں آتا ہے۔ غزف آفتاب

بزنا ہے مادری نوری روز کا دن ہے۔

برنج حوت (ع۔ مٹ) مچھلی کی شکل کا برج

برنج خاکی۔ تین برنجوں سے مراد ہے۔ تور۔ سنبلہ اور جدی۔

برنج دلو (ع۔ مٹ) وہ برج جس کی شکل گھڑ یا ڈول اٹھائے ہوئے شخص کی ہے

برنج سرطان۔ وہ برج جس کی شکل کیکڑے جیسی ہے۔

برنج سنبلہ (ع۔ مٹ) وہ برج جس کی شکل ایک کنواری لڑکی کی ہے۔

جواہر میں بالی لیے کھڑی ہے۔

برنج ستر (ع۔ مٹ) وہ برج جس میں کسی ستارے کو عروج حاصل ہوتا ہے

برنج عقرب۔ بچھو کی شکل کا برج۔

برنج میزان۔ ترازو کی شکل کا برج۔

برنجی (بر۔ جی) [ا۔ مٹ] [۱۱] برنج کی تصغیر۔ چھوٹا برنج۔

برجیس (بر۔ جیس) [ف۔ ۱۰۔ مٹ] ایک ستارے کا نام جو چھپے آسمان پر

ہے۔ مشتری۔ قاضی فلک۔

برجھرا (ہ۔ مٹ) درخت۔ پیڑ۔ پودا۔

برجھا (بر۔ بھا) [ہ۔ ۱۰۔ مٹ] بھالا۔ بلم۔ نیزہ

برجھک (بر۔ بھک) [ہ۔ ۱۰۔ مٹ] برج بھرب۔ آسمان کا آٹھواں برج

برجھول (بر۔ ہول) کھوڑے یا ہرن کا بہت تیز دوڑنا۔ اچھلنا۔

برجھی (بر۔ جھی) [ہ۔ ۱۰۔ مٹ] چھوٹا بھالا۔ بلم۔ نیزہ۔

برجھی اتر جانا (محاورہ) برجھی کا کسی چیز کے پار ہونا۔

برہمی تاننا (محاورہ) برہمی مارنے پر آمادہ ہونا۔ حملہ کرنے کے لیے تیار ہونا۔

برہمی تو لانا (محاورہ) برہمی مارنے کی تیاری کرنا۔ آمادگی ظاہر کرنا۔ برہمی جگر کے پار ہونا (محاورہ) برہمی لگنا۔ بے حد صدمہ ہونا۔

برہمی بھینسا (محاورہ) برہمی لگنا۔ بہت صدمہ ہونا۔

برہمی چلنا (محاورہ) برہمی سے دار ہونا۔

برہمی سیدھی کرنا۔ نیبڑہ مارنے کو تیار ہونا۔

برہمی لگانا (۱۱) برہمی مارنا (۲) صدمہ پہنچانا۔ بہت تکلیف دینا۔

برہمنیت (برہمنیت) (۱۰-۱۱) [مذ] نیزہ باز۔ برہمنیٹھے والا۔

برہڑ (ع-۱) (مذ) سہری جاڑے کا موسم۔ گھنڈک

برد اطراف۔ موت کی سڑی جس میں ہاتھ کے ماتھے پاؤں سر ہونے لگتے ہیں

برو (ع-۱۰) مٹا (۱) ایک قسم کی چادر یا کملی۔

برو پھانی۔ مین کی چادر۔

برو اف (۱۰-مٹا) (۱۱) لے جانے یا اٹھانے کا عمل (۲) نفع یافت۔ رشوت بالائی آمدنی (۳) شرط۔ (۴) شطرنج کی بازی میں بادشاہ کا اکیلار جانا۔

برو بار۔ برو داشت کرنے والا۔ صابر۔ متحمل (یہ اردو ترکیب)

برو ہاری۔ محل۔ صبر۔ برو داشت۔ سہار۔

برو مارنا۔ بازی جیتنا۔ (۲) رشوت لینا۔ فائدہ حاصل کرنا۔

بروہ (برہ-۵) (ف-۱) مذ غلام۔ داس۔ بندہ۔

بروہ فروش۔ غلاموں کی تجارت کرنے والا۔

بروہائی۔ بروہوئی (برہ-دھامی، برہ-دھو-۱) (مٹا) (۱۰-۵) [مٹا] وہ بازار جس میں لگنے بیل فروخت ہوتے ہیں۔

بروڈا (برہ-ڈا) (۱۵-۱۰-مٹا) [مٹا] بریتی اور پھر بلی زمین۔

بروڈتا (۱۰-مٹا) کسی چیز کا زیادہ خشک ہونے یا بوجھ تلے دب کر ٹھسا ہوجانا۔ اٹھنا۔ (۲) غمزور کرنا۔

بروزخ (برہ-رذخ) (ع-۱۰) مذ و مٹا [۱۱] آڑ پڑوہ۔ روک (۲) مرنے کے بعد قیامت تک کا زمانہ (۳) دو مخالف چیزوں کے درمیان کی چیز (۴) مصیبت اور آرام کا درمیانی درجہ (۵) وہ عالم جس میں مرنے کے بعد سے قیامت آوے ہیں۔ جمع برازخ۔

بروزن (برہ-زن) (ف-۱۰) [مذ] کلی۔ کوچ بازار۔ سڑک۔

بروس (برہ-رس) (۵-۱۰-مذ) [مذ] و ریش۔ سال۔ سنہ۔ بارہ مہینے کی مدت زمین کا سورج کے گرد گھومنے کی مدت جو تقریباً ۳۶۵ دن ہے۔

بروس برس کے دن۔ وہ خوشی یا جشن کا دن جو سال بھر کے بعد آتا ہے۔ سالانہ تہوار کا دن۔

بروس بھر۔ سال بھر۔

بروس کا گتھ۔ سالگرہ۔ بچے کی پیدائش کے سال یا درکھنے کے لیے ڈور سے مین ہر سال ایک گاتھ لگانے کی رسم۔

بروسوں پھلانا۔ عرصہ تک امیدوار رکھنا۔

بروسوں بگھوٹنا۔ ملوں کسی امید میں رہنا۔ مدتوں کسی تلاش یا کوشش میں رہنا۔

بروسوں کا مرض۔ پورا نا مرض۔

بروسوں کا فاصلہ۔ برسوں کی راہ (۱-۱۱) مذ مٹا [طویل راستہ] لمبی فست برسوں دن۔ ہر سال۔ سال میں ایک بار

بروسا برس (برہ-ساب-رس) [۵-۱۱] متابع فعل] ہر سال۔ سارا برس کئی سال

بروسا برس (برہ-سات) [۵-۱۱] مٹا [بارش کا موسم۔ برکھارت۔

بروسا برس کے سات (مٹا) ابرسات کا لطف طیب ہے کہ شوہر پاس ہو۔

بروسا کھا جانا (محاورہ) ابرسات کا اثر قبول کرنا۔

بروسا کی چاندنی (۱۱) مٹا [نا پائدار چیز۔

بروسا (برہ-سا-تی) (۵-۱۱-مٹا) [۱۱] گھوڑوں یا اونٹوں کی ایک سیڑھی جو برسات میں ہوجاتی ہے (۲) سائبان (۳) وہ فصل جو برسات کے موسم میں تیار ہو پائی جائے (۴) بارش سے بچنے کا کوٹ (۵) (صف) ابرسات سے متعلق۔

بروسا پی پھنسیاں۔ وہ بھوڑے پھنسیاں جو برسات کے اثر سے ہوجاتی ہیں

بروسا پی فصل۔ وہ غلہ جو برسات کی فصل میں تیار ہو۔

بروسا (برہ-سام) [ف-۱۰] [مذ] چھاتی کی سوجن۔ بیسنے کا درد بھینچوڑوں میں پائی بھر جانا۔

بروسا تار بوسا بنا (۵-۱۰-مص) [۱۱] بارش کرنا (۲) اناج کو ہوا میں اٹا کر بھوسا علیحدہ کرنا۔

بروسا ڈو (برہ-سا-ڈو) (۵-۱۱) [مٹا] [مص] [۱۱] برونے والا۔ برونے کے لائق۔

بروس پڑنا (برہ-پڑنا) (۵-۱۱) [مص] [۱۱] گالیاں دینا۔ مارنے لگنا۔

برا بھلا کہنے لگنا۔ غصے ہونا (۲) مینہ کا ایک بوسا۔

بروسا (برہ-رس-نا) (۵-۱۱) [مص] [۱۱] مینہ پڑنا (۲) غصہ تارنا بخفا ہونا۔

(۳) کسی شے کا کثرت سے ہونا۔

بروسے ساون تو بیاج کے ہوں باون ایشل، ساون میں اگر اچھی بارش ہو جائے تو فصل خوب ہوتی ہے۔

بروسوڑھی (برہ-سوڑھی) (۵-۱۰-مٹا) [۱۱] سالانہ محصول یا کریر (۲) سالانہ آمدنی (۳) سالانہ شرح۔

بروسی (برہ-سی) (۵-۱۰-مٹا) [مٹا] مردے کے سال پورا ہونے کی فاتح خوانی۔

بروسی (برہ-سی) (۵-۱۰-مٹا) [مٹا] (۱۱) آگ جلانے کا مٹی کا برتن (۲) سار کی اٹھھی۔ کھٹانی۔

بروش (ع-۱۰) [مذ] ایک مرکب دوائی کا نام جس کا جزو اعظم فیون ہے۔

بروش (Brush) [مٹا] [۱۱] مٹا [مٹا] (۲) کوچی (۳) کپڑے وغیرہ صاف کرنے کا آلہ (۴) دانت صاف کرنے کا آلہ (۵) دھوٹھہ برش (صیح انگریزی تلفظ برش) (Brush)

بروش (برہ-رش) (۱۰-مٹا) [مٹا] [مٹا] [مٹا] (۲) مٹا [مٹا] (۳) مٹا [مٹا] (۴) مٹا [مٹا] (۵) مٹا [مٹا] (۶) مٹا [مٹا] (۷) مٹا [مٹا] (۸) مٹا [مٹا] (۹) مٹا [مٹا] (۱۰) مٹا [مٹا] (۱۱) مٹا [مٹا] (۱۲) مٹا [مٹا] (۱۳) مٹا [مٹا] (۱۴) مٹا [مٹا] (۱۵) مٹا [مٹا] (۱۶) مٹا [مٹا] (۱۷) مٹا [مٹا] (۱۸) مٹا [مٹا] (۱۹) مٹا [مٹا] (۲۰) مٹا [مٹا] (۲۱) مٹا [مٹا] (۲۲) مٹا [مٹا] (۲۳) مٹا [مٹا] (۲۴) مٹا [مٹا] (۲۵) مٹا [مٹا] (۲۶) مٹا [مٹا] (۲۷) مٹا [مٹا] (۲۸) مٹا [مٹا] (۲۹) مٹا [مٹا] (۳۰) مٹا [مٹا] (۳۱) مٹا [مٹا] (۳۲) مٹا [مٹا] (۳۳) مٹا [مٹا] (۳۴) مٹا [مٹا] (۳۵) مٹا [مٹا] (۳۶) مٹا [مٹا] (۳۷) مٹا [مٹا] (۳۸) مٹا [مٹا] (۳۹) مٹا [مٹا] (۴۰) مٹا [مٹا] (۴۱) مٹا [مٹا] (۴۲) مٹا [مٹا] (۴۳) مٹا [مٹا] (۴۴) مٹا [مٹا] (۴۵) مٹا [مٹا] (۴۶) مٹا [مٹا] (۴۷) مٹا [مٹا] (۴۸) مٹا [مٹا] (۴۹) مٹا [مٹا] (۵۰) مٹا [مٹا] (۵۱) مٹا [مٹا] (۵۲) مٹا [مٹا] (۵۳) مٹا [مٹا] (۵۴) مٹا [مٹا] (۵۵) مٹا [مٹا] (۵۶) مٹا [مٹا] (۵۷) مٹا [مٹا] (۵۸) مٹا [مٹا] (۵۹) مٹا [مٹا] (۶۰) مٹا [مٹا] (۶۱) مٹا [مٹا] (۶۲) مٹا [مٹا] (۶۳) مٹا [مٹا] (۶۴) مٹا [مٹا] (۶۵) مٹا [مٹا] (۶۶) مٹا [مٹا] (۶۷) مٹا [مٹا] (۶۸) مٹا [مٹا] (۶۹) مٹا [مٹا] (۷۰) مٹا [مٹا] (۷۱) مٹا [مٹا] (۷۲) مٹا [مٹا] (۷۳) مٹا [مٹا] (۷۴) مٹا [مٹا] (۷۵) مٹا [مٹا] (۷۶) مٹا [مٹا] (۷۷) مٹا [مٹا] (۷۸) مٹا [مٹا] (۷۹) مٹا [مٹا] (۸۰) مٹا [مٹا] (۸۱) مٹا [مٹا] (۸۲) مٹا [مٹا] (۸۳) مٹا [مٹا] (۸۴) مٹا [مٹا] (۸۵) مٹا [مٹا] (۸۶) مٹا [مٹا] (۸۷) مٹا [مٹا] (۸۸) مٹا [مٹا] (۸۹) مٹا [مٹا] (۹۰) مٹا [مٹا] (۹۱) مٹا [مٹا] (۹۲) مٹا [مٹا] (۹۳) مٹا [مٹا] (۹۴) مٹا [مٹا] (۹۵) مٹا [مٹا] (۹۶) مٹا [مٹا] (۹۷) مٹا [مٹا] (۹۸) مٹا [مٹا] (۹۹) مٹا [مٹا] (۱۰۰) مٹا [مٹا]

برق (۱-۱)۔ ممت (۱۱) جما ہوا پانی بجھے ہوئے (بکرات ۲۱) پالا۔

(۱۲) [صف] نہایت سفید بہت ٹھنڈا۔

برق اب (۱-۱)۔ ممت (۱۱)۔ برق کا پانی۔ ٹھنڈا پانی۔

برقانی ان۔ (۱)۔ برق سے متعلق (۲) نہایت سرد۔

برق باریق (۱-۱)۔ ممت (۱۱)۔ برق پڑنے کا عمل۔

برق پڑنا (معاورہ)۔ برق برسا۔ پالا پڑنا۔ نہایت سردی پڑنا۔

برق کا زمازما۔ وہ وقت جب دنیا برق سے ڈھکی پڑی ہوتی۔

برق میں لگانا (معاورہ)۔ برق میں رکھ کر سرد کرنا۔

برق ہونا (معاورہ) نہایت سرد ہونا۔

برق (برق)۔ (۱)۔ ممت (۱۱)۔ ایک قسم کی مٹھائی جو درد دھاو رکھانڈ

کے قوام سے تیار ہوتی ہے۔

برقیا (برق)۔ (۱)۔ ممت (۱۱)۔ برق سے بچنے والا۔

برق (۱-۱)۔ ممت (۱۱)۔ آسانی بجلی۔ صاعقہ (۲)۔ مصنوعی بجلی (۳)۔ [صف]

تیز چلاک۔

برق آسا (ضعف)۔ صف (بجلی کی مانند) بہت تیز۔

برق بن کر گرنا (معاورہ)۔ بجلی کی سی تیزی کے ساتھ ٹوٹ پڑنا۔ تباہ کرنا

برق اب (۱)۔ صف (بجلی کی طرح بچنے والا)۔ روشن پانی سے پیدا ہونے والی بجلی۔

برق ٹوٹنا۔ برق گرنا۔ بجلی گرنا۔ مصیبت نازل ہونا۔ تباہی آنا۔

برق غماطف۔ بجلی کی جگ جو آنکھ کو خیرہ کر دے۔

برق خرام (۱)۔ (۱)۔ صف (تیز رفتار)

برق دم۔ بجلی کی طرح تیز رفتار۔ چلاک (۲)۔ تیز دھار والی تلوار وغیرہ)

برق دم ہونا (۱)۔ مستعد ہونا تیز ہونا (۲)۔ چمکدار ہونا۔

برق ربا۔ بجلی کا کسٹھیر۔ آسانی بجلی کو زمین میں اتارنے والا آکر

برق زخا (۱)۔ (۱)۔ صف (حسین)۔ خوب رو۔

برق رفتار۔ برق خرام (۱)۔ (۱)۔ صف (بجلی کی طرح تیز رفتار۔

برق زدہ (۱)۔ بجلی کا جلابا ہوا (۲)۔ وہ جس پر بجلی گری ہو۔

برق نگاہ (ضعف)۔ شوخ نظر۔

برق نما۔ ایک آکر جس کے ذریعے معلوم کیا جاتا ہے کہ جسم پر برقی بار

سے ماہتیں اور اگر ہے تو منفی ہے یا مثبت۔

برق دوش۔ بجلی کی طرح شوخ بھلیلا تیز۔

برق قاب (برق)۔ (۱)۔ ممت (۱۱)۔ پانی سے نکالی ہوئی بجلی۔ ہائیڈرو

الیکٹریٹی (۲)۔ پانی سے پیدا ہونے والی بجلی۔

برقانا۔ کسی چیز میں بجلی بھرنے یا بجلی کی زور دہانا۔

برق (برق)۔ (۱)۔ ممت (۱۱)۔ نقاب پر وہ۔ کھونکٹ۔ چادر (۲)۔ وہ کپڑا

جسے عورتیں پردے کے لیے سر سے پائوں تک اوڑھتی ہیں

برق اٹھانا (معاورہ)۔ اے پردہ کرنا۔ منہ سے نقاب ہٹانا (۲)۔ لڑنا کھانا

برق اوڑھنا (معاورہ)۔ برق پھینکا۔

برق پوش (۱)۔ صف (برق پینے والی)۔ نقاب پوش۔ پردہ دار

برق ڈالنا (معاورہ)۔ برق اوڑھنا۔

برق میں چھپنے لگانا۔ نیک چلنی کے پردے میں بد چلنی کرنا۔

برق انداز (برق)۔ (۱)۔ ممت (۱۱)۔ بند بچی۔ چپراسی سپاہی۔ رولی نقاب

برق (برق)۔ (۱)۔ صف (برق سے منسوب)۔ بجلی کا۔

برق (برق)۔ (۱)۔ ممت (۱۱)۔ برق سے صرف شدہ بجلی کی مقدار معلوم ہوتی ہے

برق زور۔ بجلی کی ہر جو بطن دبانے سے اجسام میں سے گزرتی ہے۔

(Electric Current)

برق کھنٹی۔ وہ کھنٹی جو بجلی سے بنتی ہے (ایکٹرک بیل (Electric Bell)

برق لیٹ۔ بجلی سے چلنے والا لیٹ

برق (برق)۔ (۱)۔ ممت (۱۱)۔ تار۔ ایکٹرک بیل (۲)۔ ایکٹرک بیل (Electron)

برق اب۔ (برق)۔ (۱)۔ ممت (۱۱)۔ ایک قسم کا ادنی کپڑا۔ جراثیم کے باؤں

سے بنایا جاتا ہے۔

برق کات اب۔ (برق)۔ (۱)۔ ممت (۱۱)۔ برکت کی جمع۔

برق کت اب۔ (برق)۔ (۱)۔ ممت (۱۱)۔ زیادتی بہنات۔ کثرت لغت

کی زیادتی۔ خوش قسمتی۔ رونق (۳)۔ بٹنے توڑنے وقت پہلی ٹول

پر ایک کی بجائے برکت کتنے ہیں۔

برق کت اٹھنا۔ برکت اڑ جانا۔ برکت جانا۔ (۱)۔ معاورہ (۲)۔ نخوست آنا نکبت

آنا۔ رونق نہ رہنا۔

برق کت دینا (معاورہ)۔ ترقی دینا۔ کام میں زیادتی نصیب کرنا۔ بڑھانا۔

برق کت کے دن۔ وہ زمانہ جب چیزیں مستحق بنتی ہیں۔

برق کت ہونا (معاورہ)۔ زیادتی ہونا۔ اضافہ ہونا (۲)۔ تمام ہونا۔

برق کت سے۔ رائیقلہ ہمت و حوصلہ ہونا۔ فقیروں کو کچھ نہ دینا ہو تو عورتیں کہتی ہیں۔

برق کلا۔ برق کلا۔ برق۔ لا۔ برق۔ لا۔ (۱)۔ ممت (۱۱)۔ گوبر کے چھوٹے پلوں کا

بار جو ہولی مانا کو بڑھایا جاتا ہے۔

برق کتا اب۔ (برق)۔ (۱)۔ ممت (۱۱)۔ چھوٹا۔ ڈالنا۔ کچھ نہ پھینکا لگانا۔

برق کلا (۱)۔ ممت (۱۱)۔ آسمان کے دوسرے بروج کا نام جو بیل کی شکل کا ہے

بروج نورد۔

برق کھا (برق)۔ (۱)۔ ممت (۱۱)۔ بارش۔ مینہ۔ برسات۔ برشگال

برق کھارت۔ برسات کا موسم۔

برق کی (برق)۔ (۱)۔ ممت (۱۱)۔ پیشی بھر سفوف۔ اتنا سفوف جس کو گھٹے

اور اس کے پاس کی انگلی سے اٹھایا جاسکے۔

برق (۱)۔ ممت (۱۱)۔ پتا۔ رونق۔ پات (۲)۔ سامان۔ نوشہ۔

برق سبز (۱)۔ ممت (۱۱)۔ سبز پتا

برق تنبول۔ پان کا پتا۔

برق ریز (۱)۔ صف (پتے گرنے والا)۔ موسم خزاں۔ پت بھر

برق سبز است۔ تحفہ عروس (۱)۔ (۱)۔ پت سبز پتا فقیر کا ہدیہ ہے۔ تحفہ

یا پان پیش کرنے وقت انکسار سے کہا جاتا ہے۔

برق و بار (۱)۔ ممت (۱۱)۔ پھل اور پتے۔

برق و بار لانا (معاورہ)۔ پروان چڑھنا۔ پتہ نکلنا۔

برق و ساز (۱)۔ ممت (۱۱)۔ ساز و سامان۔ معاش کا اسباب۔ زندگی کا سامان

برق گا (برق)۔ (۱)۔ ممت (۱۱)۔ چھوٹا شہنشاہ چھوٹی گڑھی۔

برق گار (برق)۔ (۱)۔ ممت (۱۱)۔ بڑا کار و حرکت۔ بڑ۔

برگد کی جٹا ڈاڑھی۔ برگد کے وہ ریشے جو شاخوں سے نکل کر زمین تک پہنچتے ہیں۔
 برلاہ۔ مذ [کہیں کہیں۔ خال خال۔
 برما بڑا۔ ما [مذ] لکڑی میں چھید کرنے کا اوزار۔ سنبھا
 برمانا بڑا۔ مانا [ہ۔ مص] برے سے سوراخ کرنا۔ چھیدنا۔
 برمانا بڑا۔ مانا [ہ۔ مص] [۱۱] تابع کرنا۔ مطیع کرنا [۱۲] دنی کرنا [۱۳] سنا۔
 سنا۔ کپکانا۔
 برم راس برم راکشش رب۔ زم۔ را۔ کس۔ برہم۔ راک۔ کشش [اس۔ ۱۔ مذ] ایک خاص قسم کا خبیث۔ بدروح۔
 برموہی (بڑوہی) [ہ۔ صف] [۱۱] بد شکل۔ ہیبت ناک۔ بد نما [۲] (مٹ)۔ بٹی۔
 برن اب۔ رن [ہ۔ ۱۔ مذ] [۱۱] رنگ۔ روپ۔ نقشہ۔ بناؤ جسم بدن ذات۔ نوم جنس۔ فرقہ۔ نسل۔ نوع [۲] مذہب۔ پختہ
 برن شکر۔ وہ شخص جس کی مال اور قوم کی ہوا دریا کسی اور قوم کا وٹلا
 برن مالاہ۔ مٹ [حرفوں کا بار۔ حروف ہی۔ الف۔ ب۔ ت۔
 برنا بڑا۔ نا [ف۔ صف] جوان۔ نو عمر [ایک وزنت۔
 برنابی (بڑناہی) [ف۔ ۱۔ مٹ] جوانی۔
 برسج اب۔ ریح [ف۔ ۱۔ مذ] [۱۱] چاول [۲] پتیل
 برسج کابلی۔ باؤ رنگ۔
 برسج مشک۔ ایک دوکانام (بالنگو)
 برسج اب۔ رن۔ جن [ف۔ ۱۔ مٹ] سونے یا چاندی کی چوڑی
 برجی (پسلون جی) [ف۔ ۱۔ مذ] [۱۱] پتیل کا برتن [۲] چھوٹی ٹیکل
 برنگا اب۔ رن۔ گا [ہ۔ ۱۔ مذ] لکڑی کا چھوٹا تختہ جو پھت پاشنے کے کام آتا ہے۔ برگ۔
 برن اب۔ رن [ہ۔ ۱۔ مذ] [۱۱] بیان۔ اظہار [۲] تحریر [۳] تعریف
 برنی اب۔ رنی [ہ۔ ۱۔ مٹ] وہ جگہ جہاں پلکیں نکلتی ہیں۔ چوٹوں کا کنارہ
 بردا (بڑا) [ہ۔ ۱۔ مذ] [۱۱] خراب قسم کی ریشی زمین [۲] ایک رگنی
 کانام جو سد پہرے وقت گائی جاتی ہے کہتے ہیں اسے سن کر وحشی جانور رام ہو جاتے ہیں۔
 بڑوا (بڑوا) [ہ۔ ۱۔ مذ] [۱۱] پورا [۲] درخت [۳] بچہ۔ کم عمر کا۔
 بڑوت اب۔ روت [ف۔ ۱۔ مٹ] موعظہ۔ موعظیں۔
 بڑوت اب۔ روت [ہ۔ ۱۔ مٹ] ایک قسم کی کٹی ہوئی بیج میں بیج جمع ہونے کے باعث نکل آتی ہے۔ پیٹ کا چھوڑا۔
 بڑوٹھاب۔ روٹھا [ہ۔ ۱۔ مذ] ڈیروٹھی۔ دروازہ۔
 بڑوتج اب۔ روتج [ہ۔ ۱۔ مذ] برسج کی جمع۔
 بڑوت اب۔ رو۔ وٹ [ہ۔ ۱۔ مٹ] سردی۔ سختی۔ ٹھنڈک
 بروکر (Broker) [ب۔ رو۔ کر] [کتاب۔ ۱۔ مذ] دلال۔ بیعت
 بروگ اب۔ روگ [ہ۔ ۱۔ مذ] جدائی۔ فراق۔ ہجر۔
 بروگن اب۔ روگن [ہ۔ ۱۔ مٹ] فراق زدہ عورت۔ جھولت عورت
 بروگی اب۔ روگی [ہ۔ ۱۔ مذ] فراق زدہ مرد۔ مجبور

برون (ب۔ رن) (ف) بیرون کا مخفف۔ باہر۔ باہر کی طرف
 برہ (بڑ۔ رہ) [ف۔ ۱۔ مذ] بھڑیا بکری کا چھوٹا بچہ۔ بڑوالہ
 برہ فلک۔ برن حمل۔ آسمان کا پہلا برج۔
 برہ (ب۔ رہ) [ہ۔ ۱۔ مذ] [۱۱] ہجر۔ جدائی۔ فراق [۱۲] جدائی کا گیت۔
 برہا (بڑہا) [ہ۔ ۱۔ مذ] [۱۱] رسی۔ دھاگا۔ قسم [۱۲] پانی کی تالی [۱۳] گاؤں کی زمین جو دور ہو۔ چوپایوں کے چرنے کی زمین۔
 برہا (بڑہا) [ہ۔ ۱۔ ۱۔ مذ] دیکھیے برہ۔
 برہان (بڑہان) [ہ۔ ۱۔ مٹ] ذیل جس میں شک و شبہ نہ ہو۔ حجت۔ جمع۔ براہین۔
 برہان فی۔ ذیل کی ایک قسم جس میں معلول سے علت کی طرف استدلال کرتے ہیں۔
 برہان فی۔ ذیل کی ایک قسم جس میں علت سے معلول کی طرف استدلال کرتے ہیں۔
 برہمیت (ب۔ رہم) [ہ۔ ۱۔ مذ] [۱۱] ایک نثار سے کانام [۲] برہمیت [۲] جمعیت۔ پختہ
 برہم۔ برہما (ب۔ رہم) [ہ۔ ۱۔ مذ] [۱۱] رب (الارباب) قادر مطلق۔ خالق کائنات۔ مبداء۔ عالم۔ خدا سے تعالیٰ۔ روح مجرد۔
 برہمچاری۔ چارہ۔ وہ شخص جو علم دہد حاصل کرنے کے لیے سیاحت کرے [۲] دیدار [۳] الیٹور کا متلاشی (مجازاً) تارک الدنیا۔
 برہمچریج (ب۔ رہم) [ہ۔ ۱۔ مٹ] پاک دامنی۔
 برہم (بڑہم) [ف۔ ۱۔ مٹ] رنجیدہ۔ خفا۔ ناراض۔ پرانگندہ
 برہم (بڑہم) [ف۔ ۱۔ مٹ] خراب پریشانی۔ تنزیر۔ اٹھ پلٹ
 برہمن اب۔ رہ۔ رہن [ہ۔ ۱۔ مذ] [۱۱] پنڈت۔ عالم [۲] ہندوؤں کی سب سے اونچی ذات۔
 برہمنی (ب۔ رہ۔ مانی) [ہ۔ ۱۔ مٹ] برہمن کی عورت۔ برہمن ذات کی عورت۔
 برہموسلمج (ب۔ رہ۔ مٹ) [ہ۔ ۱۔ مذ] [۱۱] ہندوؤں کا ایک مکتبہ فکر جس کی بنیاد ستھلہ میں راہہ رام موہن داس نے جنگال میں رکھی۔
 برہمی (بڑہمی) [ہ۔ ۱۔ مٹ] [۱۱] ابتری۔ گڑبڑ۔ خرابی [۲] ناراضی۔ سختی۔
 برہمن (بڑہمن) [ہ۔ ۱۔ مٹ] مجبور۔ بروگن۔ فرقت زدہ عورت۔
 برہنگی (ب۔ رہ۔ نگی) [ہ۔ ۱۔ مٹ] [۱۱] ننگاپن۔
 برہمنہ (ب۔ رہ۔ نہ) [ہ۔ ۱۔ مٹ] [۱۱] ننگا۔ عریاں۔ کھلا ہوا۔
 برہمنی (بڑہمنی) [ہ۔ ۱۔ مٹ] [۱۱] روٹی جس کے اندر دال قند یا ساگ وغیرہ بھر کر پکاتے ہیں [۲] ایک قسم کی گھاس جس میں سے لہوں کی خوشبو آتی ہے
 برہمنانا (بڑہنا) [ہ۔ ۱۔ مذ] [۱۱] میری کے درختوں کا پانچ۔
 برہمیلا۔ بڑہمیلا (بڑہمیلا) [ہ۔ ۱۔ مذ] [۱۱] جنگلی سورا۔
 برہمی (بڑہمی) [ہ۔ ۱۔ مذ] [۱۱] پان لوئے اور بیچنے والا۔
 برہمی (ب۔ رہمی) [ہ۔ ۱۔ مٹ] [۱۱] اسحق کا سامان۔ میوہ۔ پارچہ جات وغیرہ

بریکٹس (Brackets) اب۔ رے۔ بٹن (۱-۵)۔ مٹھ [دھون۔
بریکنگ لوڈر (Breach Loader) اب۔ رینج۔ لوڈر (انگ) مٹھ
چھلی جانب سے بھری جانے والی بندوق۔

بریکر (Breaker) اب۔ رینڈا [ف]۔ ۱۔ مذ [قاصدہ پیغام بر۔ پٹی ۲۰، ہرکارہ ۳۱، طاک
بریکر فلک (۱۱) جاندا (۲) برنج زحل (۳۱) سینچر۔
بڑے حالوں جینا (مخادوم) خراب حالت میں۔ غریبی اور مصیبت
میں دن گزارنا۔

بڑے دل۔ بے پروائی سے۔ ناگواری سے۔ بد منتی سے۔
بڑے بچھڑے کیا ڈریے تیری برائی سے ڈبیے (مثلاً) بڑے
آدمی کی مذمت کے لیے کہا جاتا ہے۔

بڑے کا انجام بُرا (مقبول) بڑے کام کی سزا ضرور ملتی ہے۔
بڑے کا سہرا (روزمرہ) غصے اور بیزاری کے عالم میں کہتے ہیں نفلوں
بڑے کی برائی میں بھلے کی بھلائی (مثلاً) سب سے الگ
کسی سے واسطہ نہیں۔

بڑے کی جان کو روٹنا (مخادومہ) ظلم و ستم پر صبر کرنا (۲) ظالم کی شکایت
بڑے بچھن (۱)۔ مذ [بری عادت۔ بڑے کام
بڑے وقت اڑے (۱) نا (مخادومہ) مصیبت کے وقت مدد کرنا۔
بڑے وقت سب آنکھ چراتے ہیں (مثلاً) مصیبت میں کوئی سافق
نہیں دیتا۔

بڑے وقت کا اللہ بلی (مثلاً) مصیبت میں اللہ کے سوا کوئی مدد
نہیں کرتا۔

بریکم (Brake) اب۔ رے۔ بٹن (۱)۔ مذ [بریکم۔ لبریم۔
بریک (۱)۔ مذ [بریک (۱)۔ مذ [گاڑی روکنے کا آلہ
(۲) بریک کا ڈبا۔ گاڑی کا ڈبا۔

بریکٹ (Bracket) اب۔ رے۔ بٹن (۱)۔ مذ [انگ (۱) قوسین
{ } [جن میں جملہ معترضہ یا مشکوک عبارت بند
کی جاتی ہے (۲) دیوار گیر کی۔ دیوار میں لگانے کی چھوٹی امااری، پولور
کھنی یا کچھ دیوار اجڑ موڑ نہیں رکھنے کے لیے دیوار میں تلبتے ہیں
بریکڈ (Brigade) اب۔ ری۔ گیڈ (انگ)۔ مذ [کوئی منظم
جماعت (۲) سب ڈویژن۔

برگیڈیئر (Brigadier) اب۔ ری۔ گے۔ ڈ۔ بر [انگ (۱)۔ مذ [برگیڈ
کا سالار اعلیٰ۔

بریل (Braille) اب۔ رے۔ آل [انگ (۱)۔ مذ [اندھوں کے
لیے ایک نظام تحریر و طباعت۔

بریس (Bris) اب۔ رے [ف [صف (۱) اعلیٰ۔ بلند۔ برتر (۲) برس۔ اس پر
بہرین عقل و دانش بہا بد گریست (مثلاً) ایسی عقل اور سمجھ پر مدعا
جائے۔

بریں مدودہ گر جاں فشاںم رواست (مثلاً) اس خوشخبری پر اگر میں
تجان بھی قربان کر دوں تو جاناز ہے۔

بریں ہم (ت) اس کے باوجود اس پر بھی۔

جود و لگا کی جانب سے وطن کے ہاں بھیجے جاتے ہیں۔
برہی (Breach) اب۔ ری [ع [صف (۱) آزاد۔ چھوٹا ہوا (۲) بے گناہ بے نقص
پاک۔ فارغ۔

برہی الذمہ۔ ذمہ داری سے محفوظ۔ جواب دہی سے مستثنیٰ۔
برہی (Breach) اب۔ ری [ع [صف [تخلی کا۔ زمین سے متعلق۔
برہی (Breach) اب۔ ری [ع [صف [تخلی کو ہانکنے کا حکم جو فیلیان بولتے ہیں۔

برہی (Breach) اب۔ ری [ع [صف [تخلی کو ہانکنے کا حکم جو فیلیان بولتے ہیں۔
برہی (Breach) اب۔ ری [ع [صف [تخلی کو ہانکنے کا حکم جو فیلیان بولتے ہیں۔
برہی (Breach) اب۔ ری [ع [صف [تخلی کو ہانکنے کا حکم جو فیلیان بولتے ہیں۔

برہی (Breach) اب۔ ری [ع [صف [تخلی کو ہانکنے کا حکم جو فیلیان بولتے ہیں۔
برہی (Breach) اب۔ ری [ع [صف [تخلی کو ہانکنے کا حکم جو فیلیان بولتے ہیں۔
برہی (Breach) اب۔ ری [ع [صف [تخلی کو ہانکنے کا حکم جو فیلیان بولتے ہیں۔

برہی (Breach) اب۔ ری [ع [صف [تخلی کو ہانکنے کا حکم جو فیلیان بولتے ہیں۔
برہی (Breach) اب۔ ری [ع [صف [تخلی کو ہانکنے کا حکم جو فیلیان بولتے ہیں۔
برہی (Breach) اب۔ ری [ع [صف [تخلی کو ہانکنے کا حکم جو فیلیان بولتے ہیں۔

برہی (Breach) اب۔ ری [ع [صف [تخلی کو ہانکنے کا حکم جو فیلیان بولتے ہیں۔
برہی (Breach) اب۔ ری [ع [صف [تخلی کو ہانکنے کا حکم جو فیلیان بولتے ہیں۔
برہی (Breach) اب۔ ری [ع [صف [تخلی کو ہانکنے کا حکم جو فیلیان بولتے ہیں۔

برہی (Breach) اب۔ ری [ع [صف [تخلی کو ہانکنے کا حکم جو فیلیان بولتے ہیں۔
برہی (Breach) اب۔ ری [ع [صف [تخلی کو ہانکنے کا حکم جو فیلیان بولتے ہیں۔
برہی (Breach) اب۔ ری [ع [صف [تخلی کو ہانکنے کا حکم جو فیلیان بولتے ہیں۔

برہی (Breach) اب۔ ری [ع [صف [تخلی کو ہانکنے کا حکم جو فیلیان بولتے ہیں۔
برہی (Breach) اب۔ ری [ع [صف [تخلی کو ہانکنے کا حکم جو فیلیان بولتے ہیں۔
برہی (Breach) اب۔ ری [ع [صف [تخلی کو ہانکنے کا حکم جو فیلیان بولتے ہیں۔

برہی (Breach) اب۔ ری [ع [صف [تخلی کو ہانکنے کا حکم جو فیلیان بولتے ہیں۔
برہی (Breach) اب۔ ری [ع [صف [تخلی کو ہانکنے کا حکم جو فیلیان بولتے ہیں۔
برہی (Breach) اب۔ ری [ع [صف [تخلی کو ہانکنے کا حکم جو فیلیان بولتے ہیں۔

برہی (Breach) اب۔ ری [ع [صف [تخلی کو ہانکنے کا حکم جو فیلیان بولتے ہیں۔
برہی (Breach) اب۔ ری [ع [صف [تخلی کو ہانکنے کا حکم جو فیلیان بولتے ہیں۔
برہی (Breach) اب۔ ری [ع [صف [تخلی کو ہانکنے کا حکم جو فیلیان بولتے ہیں۔

برہی (Breach) اب۔ ری [ع [صف [تخلی کو ہانکنے کا حکم جو فیلیان بولتے ہیں۔
برہی (Breach) اب۔ ری [ع [صف [تخلی کو ہانکنے کا حکم جو فیلیان بولتے ہیں۔
برہی (Breach) اب۔ ری [ع [صف [تخلی کو ہانکنے کا حکم جو فیلیان بولتے ہیں۔

برہی (Breach) اب۔ ری [ع [صف [تخلی کو ہانکنے کا حکم جو فیلیان بولتے ہیں۔
برہی (Breach) اب۔ ری [ع [صف [تخلی کو ہانکنے کا حکم جو فیلیان بولتے ہیں۔
برہی (Breach) اب۔ ری [ع [صف [تخلی کو ہانکنے کا حکم جو فیلیان بولتے ہیں۔

برہی (Breach) اب۔ ری [ع [صف [تخلی کو ہانکنے کا حکم جو فیلیان بولتے ہیں۔
برہی (Breach) اب۔ ری [ع [صف [تخلی کو ہانکنے کا حکم جو فیلیان بولتے ہیں۔
برہی (Breach) اب۔ ری [ع [صف [تخلی کو ہانکنے کا حکم جو فیلیان بولتے ہیں۔

بڑے پرن (بڑے پرن) [۱-۱۰] مذ [کسم کا بیج۔
بڑے پرن (ب. ر. ی. پ. ر. ع. ۱۰) مٹا [مخلوق، خلق اللہ۔ جمع بڑیا۔

ب. ر

بڑک (۱-۵) مٹا [چوڑے پتوں والا ایک درخت۔ برگد۔ بوٹر (۲) بکواس مجنونانہ باتیں۔

بڑک (۱) صفت بڑا کا مخفف جو مرکبات میں استعمال ہوتا ہے جیسے بڑولی بڑیا گڑ۔ ایک قسم کی بڑی چرگا گڑ۔
بڑولی (۱) بڑا بول بولنے والا۔۔۔ مخفی مارنے والا (۲) یادہ گو۔ زیادہ بولنے والا۔

بڑ بھانگی۔ بڑے بھاگ والا۔ بڑے نصیبے والا۔ اقبال مند بڑ بھنگو (۱) صفت، احمق، بے وقوف،

بڑ بن۔ بڑونا۔ بزرگی، بڑائی، عزت، شان و شوکت بڑا بیٹا (پیشو) شے سے پیٹ والا (۲) بہت کھانے والا (۳) حریف لالچی بڑ تلے کا بھوت (۱) مثل ادو شخص جس سے بچنا چھوڑنا مشکل ہو جائے بڑونتا۔ بڑے دانتوں والا۔

بڑکنا۔ بڑے کان والا۔ بڑکمرگو۔ بڑکرو۔ بڑا استاد۔ گرو گھنٹال۔

بڑکنا۔ پانگنا (محاورہ) بڑ مارنا۔ بڑ پانگنا۔ مجدوبانہ باتیں کرنا۔ بڑ (عمی) موٹی (۱) بڑے منہ والی۔ بڑی حق تو گفتنی والی (۲) سورنی بڑکس آنا (محاورہ) جو شخص میں آنا سچی یا بڑ پائی مجبتا۔ بڑکنا۔ بڑی ناک والا۔

بڑا (ب. ر. ا) [۱] صفت [۱] بزرگ۔ کلاں۔ اعلیٰ۔ بڑتر (۲) لمبا دماغ (۳) بلند اونچا (۴) معزز امیر (۵) دولت مند (۵) زیادہ۔ بہت بیش (۶) بھاری۔ پیغمبر (۷) فاضل۔ بلند حوصلہ (۸) ہمیشہ زیادہ (۹) مرتبے میں زیادہ (۱۰) [۱] مذ [۲] موزک اڑو وغیرہ کی بڑبھی کی تلی ہوئی ٹکیا جسے دہی میں ڈال کر کھاتے ہیں۔ بھلا

بڑا آدمی۔ دولت مند۔ امیر۔ ذی عزت بڑا آزار (۱) تپ دق۔ سہل (۲) بڑی مصیبت۔ بھاری دکھ۔ لاعلاج مرض بڑا آیا (ظن) اتنی وقعت نہیں ہے۔ منصب نہیں ہے۔ جن نہیں ہے بڑا استاد (۱) مذ بہت چالاک۔ ہوشیار۔ گرو۔

بڑا استیجنا کرنا۔ آبدست لینا یا خانہ پھرنے کے بعد طہارت کرنا۔ بڑا اندھیر ہے (محاورہ) بہت ظلم ہے۔ کوئی انصاف نہیں۔

بڑا بھارا (محاورہ) تخیر کے لیے کہتے ہیں۔ بڑا بوڑھا (۱) صفت (۲) سرپرست۔ بزرگ (۲) معزز۔ بہت زیادہ عمر کا بڑا بول (۱) مذ [۲] بھٹی۔ سرد۔ تکتہ۔ ڈینگ۔

بڑا بول (۱) مذ [۲] بھٹی۔ سرد۔ تکتہ۔ ڈینگ۔ بڑا بول (۱) مذ [۲] بھٹی۔ سرد۔ تکتہ۔ ڈینگ۔ بڑا بول (۱) مذ [۲] بھٹی۔ سرد۔ تکتہ۔ ڈینگ۔ بڑا بول (۱) مذ [۲] بھٹی۔ سرد۔ تکتہ۔ ڈینگ۔

بڑا بول، قاضی کا پیادہ (۱) مثل ایک نہ ایک دن آگے آگے گا۔ مغرور بہت جلد ذلیل ہوتا ہے۔ بڑا بے بسیر ہے (۱) فقرہ، بہت بے رحم ہے۔ بڑا بے مروت ہے۔ بڑا بے اصول ہے۔

بڑا بھتر ہے (محاورہ) بڑا ظالم ہے۔ بڑا سنگ دل ہے۔ بڑا پیٹ ہے (محاورہ) بہت کھانے والا ہے (۲) بہت رقم ہضم کرنے والا ہے۔

بڑا تقدیر والا ہے (محاورہ) بڑا خوش قسمت ہے۔ بہت خوش نصیب بڑا تیز مارا (محاورہ) طنزاً بہت بڑا کام کیا۔ بہت ہمت کی (۲) کوئی اتھ کام نہیں کیا۔

بڑا (حکیم) اجگرا (محاورہ) بڑا حوصلہ۔ بڑی ہمت۔ بڑا جلا (۱) مذ [۲] زچہ کے چالیسواں دن کا غسل۔ بڑا فنا (۱) مذ [۲] بڑا سخی۔ بہت دینے والا (۲) اللہ میاں۔

بڑا دل ہے (۱) مذ [۲] بڑا حوصلہ ہے۔ بڑا دم کلا ہے (محاورہ) سخت چالباز اور بد معاش ہے۔ بڑا دن۔ دسمبر کی ۲۵ تاریخ جو حضرت مسیح علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہے

بڑا دیدہ ہے (محاورہ) (۱) شہنشاہیوں کا تہوار خوف ہے۔ بڑا راستہ پتھر پانا (محاورہ) دور کا سفر اختیار کرنا (۲) مرنا۔ انتقال کرنا

بڑا روک (۱) مذ [۲] تپ دق۔ بڑا سیر ہے (محاورہ) بہت بد ذات ہے۔ بہت فخر اور موڈی ہے بڑا شخص۔ نہایت تجربہ کار اور جہاں دیدہ آدمی۔ عالی دماغ (ظن) شہر بزر۔ شیطان۔

بڑا شہد ہے (محاورہ) بڑا شہر ہے۔ کلینڈ اور ذلیل ہے بڑا بھوڑا بڑا صاحب (۱) مذ [۲] حاکم اعلیٰ۔ بڑا افسر بڑا کام کرنا (محاورہ) قابل تحسین کام کرنا (۲) اہم کام کرنا۔

بڑا کرنا (محاورہ) (۱) بڑھانا۔ بلند کرنا۔ بھینچنا۔ تاننا (۲) جوان کرنا۔ پورش کرنا۔ عزت دینا۔ (۳) انائید کرنا (۴) بھانا۔ گل کرنا (چراغ) بڑا کھر توڑا (محاورہ) بڑے صدی کو قابو میں لانے۔ بڑا کام کیا۔

بڑا کوئی ہے (محاورہ) اچالاک ہے۔ ہوشیار ہے۔ مرشد ہے۔ گرو ہے متفنی ہے۔ بے ڈھب ہے۔

بڑا کھان مارا ہے (محاورہ) بہت بڑی کامیابی حاصل کی ہے۔ بڑا کھر (۱) مذ [۲] امیر کھانا۔ (۲) قید خانہ۔

بڑا کھانا (۱) مذ [۲] امیر کھانا۔ (۲) قید خانہ۔ بڑا کھڑا (۱) مذ [۲] امیر کھانا۔ (۲) قید خانہ۔

بڑا کھڑا (۱) مذ [۲] امیر کھانا۔ (۲) قید خانہ۔ بڑا کھڑا (۱) مذ [۲] امیر کھانا۔ (۲) قید خانہ۔

بڑا کھڑا (۱) مذ [۲] امیر کھانا۔ (۲) قید خانہ۔ بڑا کھڑا (۱) مذ [۲] امیر کھانا۔ (۲) قید خانہ۔

دن اس کا کیا آگے آئے گا۔
 بڑا بول کر کسائے۔ بڑا بول نہ بولے (مثل) غذا عمدہ کھائے۔ مگر شہتی
 نہ بکھارے۔

بڑا ہی سخت ہے (محاورہ) بہت بد مزاج ہے، (۲) بہت بے رحم
 ہے (۱۲) موزی ہے (۴) بہت محنتی ہے۔

بڑوں کی بڑی بات (۱) بزرگوں کی بات بچرے کی وجہ سے بختہ اور
 صحیح ہوتی ہے (۲) بڑے مرتبے والوں کی بات اور سچی ہوتی ہے۔

بڑے آدمی (لوگ) (۱) - مذا عالی خاندان اور ذی حیثیت لوگ
 بڑے آبا (۱) - مذا نیا - سسر۔

بڑے باب کا بیٹا (۱) - صف (۱) عالی خاندان صاحب عزت ذی حیثیت
 بڑے برتن کی کھنچ بھی بہت ہے (۱) مثل (۱) بڑے گھرنے کی
 معمولی بات بھی بڑی ہوتی ہے۔

بڑے بڑے۔ معززین۔ نامی گرامی لوگ۔
 بڑے بول کا سمرنچا (۱) مثل) غرور کرنے والا ذلیل ہوتا ہے۔ شہتی باز
 بے عزت ہوتا ہے۔

بڑے دل کا (محاورہ) اہمیت والا۔ عالی حوصلہ۔ ادب العزم
 بڑے بے تکے ہو (محاورہ) اہمیت دہمیت بکتے ہو

بڑے بنے ڈھلب ہوا (محاورہ) بڑے چالاک اور نزارتی ہو۔
 بڑے پاپے بیٹے ہیں (محاورہ) بڑی تکلیف اٹھاتی ہے۔ (۲)
 بہت شتمنے کام کیجے ہیں۔

بڑے باک ہو (محاورہ) طنزاً بڑے بے شرم ہو
 بڑے باؤں بھیلے (محاورہ) بہت جھک گیا۔

بڑے جھپتے پرزے ہیں (محاورہ) بہت چالاک ہیں۔
 بڑے پجور کا حصہ نہیں (مثل) زبردست جو چاہے لے لے۔
 اس کو حصہ مقرر نہیں ہوتا۔

بڑے حضرت ہیں (محاورہ) طنزاً بڑے شہرہ ہیں۔
 بڑے دانست پیٹے (محاورہ) بہت غصے ہوئے (۲) بہت لالچ کیا

بڑے دتار ہیں۔ (محاورہ) طنزاً بڑے سنجوس ہیں
 بڑے دھڑلے کا آدمی ہے اور بڑی مقبولی سے پارٹی کا ساتھ دینے
 والا آدمی ہے۔

بڑے دستم ہیں (محاورہ) بڑے بہادر ہیں۔
 بڑے زید کا بیٹا (۱) - مذا بڑی محنت سے کمایا جو اور وہیہ۔

بڑے صاحب (۱) - صف (۱) بڑے میاں - بزرگ (۲) امیر آدمی کا
 بڑا بیٹا (۳) اعلیٰ انفرادی (۴) شہتی کشش

بڑے کڑا ہی میں تلے جلتے ہیں (مثل) بڑے آدمیوں کو بہت
 مصیبت جھلینا پڑتی ہے معززین کو زیادہ آفتوں کا سامنا ہوتا ہے
 بڑے کی بڑائی نہ چھوٹے کی چھٹائی (مثل) ابد لحاظ اور بد تمیز
 کی نسبت ہوتے ہیں۔ نہ بڑے کا ادب نہ چھوٹے کا لحاظ۔

بڑے کھجانا (محاورہ) (۱) مرجانا (۲) جبل جانا
 بڑے شرم نہ ہو۔ (مفولہ) بڑے شہرہ ہو۔ چالاک ہو۔

بڑے میاں - بزرگ - معزز - تعظیماً ہر بڑھے آدمی کو کہتے ہیں۔
 بڑے میاں سو بڑے میاں چھوٹے میاں سبحان اللہ (مثل) ۱
 بڑے تو بد معاش تھے ہی چھوٹے ان سے بڑھ کر کھلے۔

بڑا پاپا بڑا پاپا اب بڑا۔ پاپا۔ بڑا۔ پاپا۔ (۱) - مذا (بزرگی عظمت۔ بڑائی
 بڑا جانا اور بڑا جانا (۲) - صف (۱) گھبرا جانا۔ حواس باختہ ہوجانا۔ کسی
 مصیبت کے سبب چلا اٹھنا۔

بڑانا بڑا۔ نا۔ (۲) - صف (۱) - مذا (بزرگی عظمت۔ بڑائی
 بڑانا بڑا۔ نا۔ (۲) - صف (۱) - مذا (بزرگی عظمت۔ بڑائی
 بڑانا بڑا۔ نا۔ (۲) - صف (۱) - مذا (بزرگی عظمت۔ بڑائی)

بڑائی (۲) بڑا مارنا (۳) اعلیٰ چھانا۔
 بڑائی (۲) بڑا۔ نا۔ (۲) - صف (۱) - مذا (بزرگی عظمت۔ بڑائی
 وسعت۔ کشادگی (۳) موٹائی (۴) مجرا (۵) تعریف۔ مدح (۶) درازی۔ لمبائی
 فضیلت۔ برتری۔ منصب (۸) غرور۔ سچی لاف زنی۔

بڑائی چھٹائی ہونا (۱) - صف (۱) - مذا (بزرگی عظمت۔ بڑائی
 بڑائی (۲) دینا (محاورہ) عزت دینا۔ مرتبہ دینا
 بڑائی (۳) کرنا (محاورہ) (۱) تعریف کرنا۔ ستائش کرنا (۲) ایچی مارنا۔ طینگ
 مارنا۔ خود ستائی کرنا۔

بڑائی مارنا (محاورہ) خود ستائی کرنا۔ بڑا ہانکنا
 بڑا بڑا (۱) - صف (۱) - مذا (بزرگی عظمت۔ بڑائی
 بڑا بڑا (۲) بڑا۔ نا۔ (۲) - صف (۱) - مذا (بزرگی عظمت۔ بڑائی)

بڑا بڑا (۲) بڑا۔ نا۔ (۲) - صف (۱) - مذا (بزرگی عظمت۔ بڑائی
 بڑا بڑا (۳) بڑا۔ نا۔ (۲) - صف (۱) - مذا (بزرگی عظمت۔ بڑائی
 بڑا بڑا (۴) بڑا۔ نا۔ (۲) - صف (۱) - مذا (بزرگی عظمت۔ بڑائی)

بڑا بڑا (۵) بڑا۔ نا۔ (۲) - صف (۱) - مذا (بزرگی عظمت۔ بڑائی
 بڑا بڑا (۶) بڑا۔ نا۔ (۲) - صف (۱) - مذا (بزرگی عظمت۔ بڑائی
 بڑا بڑا (۷) بڑا۔ نا۔ (۲) - صف (۱) - مذا (بزرگی عظمت۔ بڑائی)

بڑا بڑا (۸) بڑا۔ نا۔ (۲) - صف (۱) - مذا (بزرگی عظمت۔ بڑائی
 بڑا بڑا (۹) بڑا۔ نا۔ (۲) - صف (۱) - مذا (بزرگی عظمت۔ بڑائی
 بڑا بڑا (۱۰) بڑا۔ نا۔ (۲) - صف (۱) - مذا (بزرگی عظمت۔ بڑائی)

بڑا بڑا (۱۱) بڑا۔ نا۔ (۲) - صف (۱) - مذا (بزرگی عظمت۔ بڑائی
 بڑا بڑا (۱۲) بڑا۔ نا۔ (۲) - صف (۱) - مذا (بزرگی عظمت۔ بڑائی
 بڑا بڑا (۱۳) بڑا۔ نا۔ (۲) - صف (۱) - مذا (بزرگی عظمت۔ بڑائی)

بڑا بڑا (۱۴) بڑا۔ نا۔ (۲) - صف (۱) - مذا (بزرگی عظمت۔ بڑائی
 بڑا بڑا (۱۵) بڑا۔ نا۔ (۲) - صف (۱) - مذا (بزرگی عظمت۔ بڑائی
 بڑا بڑا (۱۶) بڑا۔ نا۔ (۲) - صف (۱) - مذا (بزرگی عظمت۔ بڑائی)

بڑا بڑا (۱۷) بڑا۔ نا۔ (۲) - صف (۱) - مذا (بزرگی عظمت۔ بڑائی
 بڑا بڑا (۱۸) بڑا۔ نا۔ (۲) - صف (۱) - مذا (بزرگی عظمت۔ بڑائی
 بڑا بڑا (۱۹) بڑا۔ نا۔ (۲) - صف (۱) - مذا (بزرگی عظمت۔ بڑائی)

بڑا بڑا (۲۰) بڑا۔ نا۔ (۲) - صف (۱) - مذا (بزرگی عظمت۔ بڑائی
 بڑا بڑا (۲۱) بڑا۔ نا۔ (۲) - صف (۱) - مذا (بزرگی عظمت۔ بڑائی
 بڑا بڑا (۲۲) بڑا۔ نا۔ (۲) - صف (۱) - مذا (بزرگی عظمت۔ بڑائی)

بڑھ کے لینا (محاورہ) پیشوائی کرنا۔

بڑھایا اب۔ بڑھا یا [۱۰۔ بند] پیری۔ کہن سالی۔ پیرانہ سالی۔

بڑھاپڑھا (۱۔ صف) نامی گرامی۔ زیادہ اچھا۔ بالائے۔

بڑھا چڑھا کر۔ مبالغہ کے ساتھ۔

بڑھا دینا [۱۰۔ صف] آگے کھسکانا (۲) بچھارنا۔

بڑھا رہا اب۔ بڑھا رہا [۱۰۔ صف] دھن وادوں کی طرف سے رخصتی کی دعوت

بڑھانا اب۔ بڑھانا [۱۰۔ صف] زیادہ کرنا۔ بڑا کرنا (۲) لمبا کرنا۔

(۳) پھیلانا (۴) بھیننا (۵) بلند کرنا۔ اور بچھارنا (۶) ترقی کرنا (۷) آگے

لانا نزدیک کرنا (۸) تعریف میں مبالغہ کرنا (۹) امیر کرنا۔ دولت مند

کرنا (۱۰) اٹھانا۔ اتارنا (۱۱) چراغ بچھانا (۱۲) کنگو یا پتنگ کو اونچا

کرنا (۱۳) دسترخوان سامنے سے اٹھانا۔

بڑھا وا اب۔ بڑھا وا [۱۰۔ صف] (۱) زیادتی (۲) جھوٹی تعریف (۳)

لو بھو۔ لالچ (۴) خوشامد ۵۱ دام۔ فریب۔

بڑھا وا دینا (محاورہ) جھوٹی ہمت باندھنا لالچ دینا۔ جھوٹی تعریف

کر کے کسی کام پر آمادہ کرنا۔

بڑھا وے میں آنا (محاورہ) خوشامد میں آنا۔ دھوکے میں آنا تعریف

پر بھولنا۔

بڑھا وا (ب۔ بڑھا وا) [۱۰۔ صف] زیادتی۔ ترقی۔

بڑھتی (بڑھتی) [۱۰۔ صف] معمول سے زیادہ فاضل۔ فائز (۲)

بڑھتی دولت۔ ترقی کرنے والی دولت۔

بڑھتی کاہرا۔ ترقی کے دن۔ بہتری کا زمانہ۔

بڑھتی منانا۔ ترقی چاہنا۔

بڑھل (بڑھل) [۱۰۔ صف] ایک درخت کا نام جس کا پھل گول اور

زرد ہوتا ہے۔

بڑھنا (بڑھنا) [۱۰۔ صف] بلند ہونا۔ اونچا ہونا (۲) اچھڑنا

میں نہ بارہ ہونا (۳) لمبا ہونا۔ دماغ ہونا (۴) حد سے گزرنے (۵) نیا

ہونا بچنا۔ فائز ہونا (۶) ترقی کرنا (۷) امیر ہونا (۸) آگے بڑھنا (۹)

نفع ہونا (۱۱) چیراں نکل ہونا (۱۲) دکان بند ہونا۔

بڑھنت (ب۔ بڑھنت) [۱۰۔ صف] (۱) زیادتی۔ اضافہ۔ افزونی۔

بڑھوا (بڑھوا) [۱۰۔ صف] بڑھایا۔

بڑھوا مشکل (۱۰۔ صف) مذکر نارس کا ایک میل جو مشکل کو لگتا ہے۔

بڑھو تری اب۔ بڑھو تری [۱۰۔ صف] (۱) زیادتی۔ جیشی (۲)

سناٹے (۳) ترقی۔ افزونی۔

بڑھوئی اب۔ بڑھوئی [۱۰۔ صف] بڑھایا۔

بڑھوئی اب۔ بڑھوئی [۱۰۔ صف] (۱) بچھارنا (۲) ایک پرند۔

کھٹ بڑھوئی۔

بڑھیا بڑھو (یا) [۱۰۔ صف] اعلیٰ درجے کا اعلیٰ رتہ کا بہت عمدہ پیش قیمت

بڑھیا بڑھو (یا) [۱۰۔ صف] (۱) بڑھوئی بڑھوئی عورت۔ کہن سار

بڑھیا آنت کی بڑیا۔ خنزیر بڑھوئی عورت۔ بگٹی۔

بڑھیا دیوانی ہونی پیر کے برتن اٹھانے کی (۱) میل بڑھیا کو دیوانگی

میں تھی اپنا فائدہ سوچتا ہے۔ مطلب کی دیوانی ہے۔

بڑھیا کا کاتا۔ ایک قسم کی چمچ دار مٹھائی

بڑھیا امری تو مری فرشتوں نے ہر ریکہ لیا۔ (۱) میل ایک بار کا نقصان

آئندہ کے خطروں کی تہید ہے۔

بڑھیل اب۔ بڑھیل [۱۰۔ صف] تحقیر بہت بڑھی عورت۔

بڑھی اب۔ بڑھی [۱۰۔ صف] بڑا کی تائید۔ بزرگ (۲) [۱۰۔ صف]

مونگ یا بڑ کی دال سے بنی ہوئی ٹکڑی جس کا ساکن رکھتے ہیں۔

بڑھی آکرو سے گزر گئی (۱۱۔ فقرہ) بڑھی عزت سے وقت گزر گیا۔

بڑھی آنت۔ وہ آنت جس سے فضلہ خارج ہوتا ہے۔

بڑھی اسامی (۱۰۔ صف) مالدار شخصیت امیر ہستی۔

بڑھی الہی (۱۱۔ صف) سیاہی مائل سرخ الہی جو گرم مصالحے میں

استعمال ہوتی ہے۔

بڑھی بات (۱۱۔ صف) امر حال مشکل (۲) عمدہ اور اچھی بات۔

بڑھی بات نہیں۔ کچھ مشکل نہیں۔ آسان ہے۔

بڑھی بڑی باتیں کرنا (محاورہ) بہت کچھ کہنا۔ بڑا بھلا کہنا۔

بڑھی بڑی باتیں ہونا (محاورہ) (۱۱) بدزبانی کی عادت ہونا (۲)

زبان درازی کرنا۔

بڑھی بڑی (بڑی) (محاورہ) بہت ہوا تو بہت کوشش ہوئی تو

زیادہ سے زیادہ ہوا تو۔

بڑھی بوڑھی (۱۱۔ صف) زیادہ عمر کی۔ تجربہ کار عورت۔

بڑھی بہو (۱۱۔ صف) بیٹی کی بیوی۔ بڑھی دھن (۲) [تحقیر] بیوقوف اور

بڑھی بہو کو بلا دھو کھیر میں (نون) نمک ڈالے (۱) میل آباد جو بڑھی

عمر ہونے کے نا تجربہ کاری کے کام پر ہوتے ہیں۔ یعنی فلاں کام خراب

کرنے میں مشہور ہے۔

بڑھی بی (بڑھی) بوڑھی عورت۔

بڑھی پونچھ کا آدمی (طنز) مفرد شخص۔

بڑھی پونچھی کھیر سے (محاورہ) بڑا مشکل کام ہے۔

بڑھی چیز (۱۱) قرآن شریف (۲) غیر معمولی (۳) قیمتی (۴) طویل جسمیم۔ عزیز

بھاری۔ قیمتی چیز (۵) نایاب۔ قابل تعریف۔

بڑھی چیز اٹھانا۔ بڑی چیز پر ہاتھ رکھنا (۱۱) قرآن شریف کی قسم اٹھانا۔

حلف اٹھانا (۲) قیمتی چیز لینا یا پسند کرنا (۳) ذنی چیز یا قیمتی چیز

کو بچھانا (۴) نایاب اور قابل تعریف چیز ہاتھ میں لینا (۵) مشکل کام

کی ذمہ داری لینا (۶) دولت مند سامی کو قابو کرنا۔

بڑھی خیر گزری یا ہوئی (۱۱۔ فقرہ) اچھا ہوا۔ بہتر ہوا۔ کسی ناگہانی

سے بچ جانے پر کہا جاتا ہے۔

بڑھی دوسری بات ہے۔ (محاورہ) عقل مندی اور دراندیشی کی بات

سے۔ تہ کی بات ہے۔ (۲) مشکل ہے۔

بڑھی دوسری سوچنا (نہایت) اچھا خیال آنا۔

بس بس ۱۱۱ بہت ہے۔ کافی ہے۔ ۲۱ خاموش ہو جاؤ۔

بس بچھو بھی۔ چپ رہو۔ باتیں نہ بناؤ۔

بس دیکھ لیا۔ اب آزمائے کی حاجت نہیں۔ خوب آزما لیا بہت آزما لیا۔ تمہارا حال کھل گیا۔

بس کمرو۔ جلنے دو۔ ٹھہرو۔ ختم کرو۔

بس میں آنا محاورہ آقا بولیں آنا۔ اختیار میں آنا۔

بس نہ چلنا محاورہ (زور نہ چلنا۔ علاج نہ ہونا۔

بس ہونچکی نماز مصلیٰ اٹھائیے (مثلاً اندازاً اس وقت کہتے ہیں جب کوئی کام ختم ہو جائے۔

بس کہ (۱) چونکہ (۲) انقصہ حاصل کلام غرض

بس [۱-۵] مذ [۱۱] زہر (۲) کھوٹ عجیب (۳) جھگڑا۔ ٹمٹا۔ فساد (۴) [صفت] شہر پرورد۔

بس ہونا محاورہ ہدی کلنج ہونا۔ فساد کی ابتدا کرنا۔

بس اگلنا (۱) زہر کھونکنا (۲) برسا کتنا (۳) بدل لینا۔ جھگڑا کھڑ کرنا (۴) چغلی کھانا۔

بس بھری (۱) زہر آلود۔ زہری (۲) کینہ پرور۔ فساد۔

بس کی پریا اگانٹھ (۱) زہر قائل (۲) شہر۔ مفسد (۳) کینہ در

بس کھوٹنا۔ زہر پھیلانا۔ فتنہ فساد پھیلانا۔

بس اب۔ سا [ف] صفت بہت۔ اکثر۔

بس اوقات۔ بہت دفعہ۔ اکثر مرتبہ

بسار۔ بسار اب۔ سار۔ ب۔ سا۔ [۱-۵] مذ [ادھار لیا ہونچ جو فضل کی تیاری براد کیا جائے۔

بسارنا۔ سارنا [ف] مص [بھلانا فراموش کر دینا۔ دل سے نکال دینا۔ چھوڑ دینا۔

بساط اب۔ سا [ف] مذ [۱۱] بستر بچھونا فرش (۲) چرلو شرط کھیلنے کا پڑا تختہ (۳) سرمایہ پونجی (۴) حوصلہ بہت۔ وسعت طاقت۔ قدرت۔

بساط خانہ۔ ف۔ مذ وہ مقام جہاں بساطی بیٹھے ہیں بساطیوں کا بازار۔ بساط سے باہر محاورہ مفرد سے زیادہ۔ طاقت سے زیادہ

بساط کیا ہے محاورہ اچھیت کیا ہے۔ ہستی کیا ہے۔ بساطی اب۔ سا [ف] مذ [خروہ فردش ضرورت کی چھوٹی موٹی چیزیں بیچنے والا۔

بسالت اب۔ سا [ف] مذ [۱۱] بستر بچھونا فرش۔ بہادری

بسالت (BASALT) اب۔ سا [ف] مذ [انگ ۶۔ مذ] گیر اسبز یا بادامی۔ آتش انگیز پتھر جس میں بالعموم کھڑے پرت ہوتے ہیں

بسان اب۔ سان [ف] صفت [حرف تشبیہ۔ مانند مثل۔ مشابہ طرح

بسانا اب۔ ساننا [ف] مص [آباد کرنا۔ معمر کرنا (۲) معطر کرنا۔ لانا

بسانا اب۔ ساننا [ف] مص [۱۱] خریدنا۔ حاصل کرنا (۲) اپنے ہر صفت بسانند۔ بسانند۔ ب۔ سانند۔ سا۔ ہند [۱-۵] مذ [بوی کرست یا پھلی وغیرہ کی بو۔

بسانا اب۔ سان [ف] ص [بد بودار۔ بارزہ (مورثہ کے لیے

بساندی ۱

بساوٹ (ب۔ سا۔ وٹ) [۱-۵] مذ [ارمٹ] نمک

بساوری اب۔ سا۔ وری [۱-۵] مذ [ارمٹ] زمین کا لگان۔

بساواپ۔ سا۔ با [۱-۵] مذ [کتاب جس کے بیس ناخن اور نہر پہلے دانت ہوتے ہیں۔

بساط اب۔ سا۔ اط [۱-۵] مذ [بسیط کی جمع۔ اربع عناصر۔

بسا سہ (بیس۔ یا۔ سہ) [۱-۵] مذ [ایک دو کا نام۔ جاوڑی سر بسنت (۱-۵)۔ مٹ] اسباب (تنبہ مستعمل نہیں چاہتے کہتے ہیں

بست (۱) بستہ کا مخف (۱۱) بندھا ہوا (۲) بند (۳) جما ہوا۔

بست و کشاد (۱) بند اور کھلا ہوا۔ حل و عقد۔

بست (۱) صفت (بیس۔ ۲۰

بست در بست کا تعویذ (۱) مذ [ایک قسم کا نقش۔

بستار (بیس تارا) [۱-۵] مذ [۱۱] پھیلاؤ۔ کشادگی (۲) بات کو بڑھا کر بیان کرنا۔

بستانا کرنا۔ پھیلانا۔ بات کو بڑھا کر بیان کرنا۔

بستان (بیس تان) [ف] مذ [بوستان کا مخف۔ باغ۔

بستان (فرز) صفت (بیس کی رونق بڑھانے والا۔ جن کی رونق۔

بستان پیرا۔ باغ کو کاٹ پھانٹ کر آراستہ کر کے والا۔

بستان تیرا۔ وہ مکان جس میں باغیچہ لگا ہوا ہو۔

بستانی (بیس تانی) [ف] صفت [بوستان سے منسوب۔ باغ کے متعلق

بستر (بیس تر) [۱-۵] مذ [۱۱] بستر بچھونا۔ فرش

بستر اٹھانا (محاورہ) (۱) بچھونا اٹھانا (۲) سکونت ترک کرنا۔

بستر بچھانا۔ بستر کرنا۔ بستر لگانا محاورہ (بچھونا بچھانا) قیام کرنا۔

بستر سے پیٹھ لگ جانا۔ صاحب فرش ہونا۔ بہت بیمار ہونا۔

بستر (بیس ت) [۱-۵] مذ [۱۱] بچھونا (۲) فقیروں اور ورثیوں کا بچھونا درکی۔ تو شک۔ لیٹا وغیرہ۔

بستگی (بیس تگی) [ف] مذ [۱۱] قبض۔ بند ہونا (۲) تفریح زہن یا طبیعت کا بیز ہونا۔

بستر بستہ (بیس تہ) [۱-۵] مذ [ارمٹ] بولنے کی روک ٹوک۔ بات چیت کی منافی۔ زبان بندی۔

بستی (بیس ت) [ف] مذ [ارمٹ] [۱۱] غلاف۔ پتھر سے باسار وغیرہ کی پوشش (۲) وہ کپڑا جس میں کوئی چیز باندھ کر رکھیں۔

بستہ (بیس تہ) [ف] صفت [۱۱] بندھا ہوا۔ رکا ہوا۔ جما ہوا (۲) [مذ] جزواں۔ پتھر۔

بستی (بیس ت) [۱-۵] مذ [ارمٹ] گاؤں۔ قصہ۔ آباد جگہ۔

بستہ (بیس تہ) [۱-۵] مذ [ارمٹ] موزوں۔ مریخ۔

بستر اب۔ سر [ف] مذ [ارمٹ] گزرا۔ گزرا۔

بسر (بسا محاورہ) کامیاب ہونا۔ غائب آنا۔

بسر اوقات (۱) مذ [گزر بسر۔ وقت کا تباہ وقت گزارنا۔

بطبع ابط - بطخ [ع. ر. مذ] آخر روزہ - تربوز
بطین [ع. تم] نجوم) یکھتر یا منزل بھرنی (۲۱) توند بلا ٹریڈیو -

ب.ع

بعث [ع. ا. مذ] (۱۱) بھیجا پیغام پر بھیجا (۲۱) اٹھانا اُبھارنا (۳۱) اُردے کو زندہ کرنا (۴۱) فوج جو بھیجی جائے ۵۱ قیامت۔
بعث و نشر - روز قیامت جس روز انسان قبروں سے اٹھائے جائیگے اور پھر پھیلا دیے جائیں گے انشر یعنی بھیرنا۔ پھیلانا
بعثت [بع. ثت] [ع. ا. مذ] (۱) رسالت۔ پیغمبر کا جیسا جانا (۲) رسالت کا زمانہ خصوصاً آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا۔
بعد [ع.] پیچھے۔ آخر۔
بعد از خرابی بسیار اوقات بڑی خرابی کے بعد بڑی مشکل سے۔
بعد از مرگ و او ایلاوات۔ مثل کسی کام کے ہو جانے کے بعد شور مچانا
بعد [ع. ی.] - مذ] دوری۔ فاصلہ۔ مسافت۔ جمع ابعاد
بعد المشرفین۔ یورپ پیچم کی دردی بہت زیادہ فرق۔
بعده [ع.] متعلق فعل اس کے بعد۔
بعض [ع.] صفت [چند۔ متعدد۔ مختلف۔ کوئی۔
بعض اوقات ات۔ مذ] کسی وقت۔ کبھی کبھار
بعل [ع. مذ] عربوں کا ایک دیوتا تھا (۲۱) خاندن۔ مالک
بعید اب۔ بعید [ع. صفت] دور۔ فاصلے پر۔ علیحدہ۔
بعید از ہم خیال۔ قیاس [ع. ف. مذ] وہ بات جو خیال میں بھی نہ لگے
بعید العقل۔ عقل کے خلاف سمجھ میں نہ آنے والا۔
بعید القیاس۔ قیاس کے خلاف۔
بعیر [ع. مذ] اونٹ۔

بغیر (بغ. جہ) [ت. ا. مذ] بقیہ کھڑی
بغی (بغ. جی) [ا. ر. مذ] بغیر کی تا نیت۔ چھوٹی کھڑی۔ پر طلی۔
بغدا [بغ. دا] [ف. ا. مذ] نصابوں کا قلم کوٹنے کا پھرا۔
بغدی [بغ. دی] [ع. ا. مذ] ایک اعلیٰ نسل کا اونٹ۔
بغرا [بغ. را] [ف. ا. مذ] وہ پھین جو اونٹ کے منہ سے سستی میں نکلتی ہے۔

بغض [ع. ا. مذ] (۱) مذاقت۔ عداوت۔ دشمنی۔ کینہ۔ حسد۔
بغض للہی۔ خدا واسطے کا بیزاری کی دشمنی۔
بغضنی [بغ. ضنی] [ف. صفت] بغض رکھنے والا۔ کینہ دار۔
بغل [ع. ا. ف. ا. مذ] (۱) شانے کے نیچے کا حصہ (۲) پلو بارو کنارہ۔ طرف۔ جانب۔ گردن (۳) برابر ایک طرف۔
بغل بلالی [ف. مذ] بغل کا چھوٹا ٹکڑا۔ عورتوں کا خیال ہے کہ بھٹی چھوڑے کو بلی چاٹ لے تو اچھا ہو جاتا ہے۔
بغل بجانا۔ محاورہ اچھوٹی منانا (۲) مضحکہ اڑانا۔
بغل پروردہ [ف. صفت] گودیوں میں پلا ہوا۔ لادلا۔
بغل سونگھنا (محاورہ) پیشمان ہونا۔ مترندہ ہونا۔ سنی دور کرنے کے لیے بغل سونگھنے ہیں۔

بغل کا پھوڑا [ف. ا. مذ] بغل میں نکلنے والا پھوڑا (۲) ایذا پہنچانے
بغل والا۔ دکھ دینے والا۔
بغل کا دشمن۔ وغا بازیا۔ دوست نما دشمن۔ استہین کا سانپ۔
بغل گرم کرنا (محاورہ) پلو میں لیٹنا۔ ساخنہ سونا۔
بغل کھیند۔ بغل کی بدبو جو ایک بیماری ہے۔
بغل کیم ہونا (محاورہ) اگلے لگنا۔ ہم آغوش ہونا۔
بغل کیمی (۱) گلے ملنا۔ سینہ بہ سینہ ملنا (۲) کشتی کے ایک دلو کا نام
بغل میں ایمان دانا (محاورہ) ایمان کو بالائے طاق رکھنا۔ بددیانتی کرنا
بغل میں لیٹنا (محاورہ) کسی کے پلو میں لیٹنا
بغل میں پرورش (محاورہ) کسی کی حمایت حاصل ہونا۔
بغل میں چھری منہ میں رام رام (منش) ظاہر میں دوست۔ باطن میں دشمن
بغل میں دابا (دانا) (۱) کسی چیز کو بغل میں چھپانا (۲) فریب دے کر کسی چیز پر تصرف کرنا (۳) بغل میں سنبھالنا۔

ب.ع

بغارہ [ب. غا. ر. ف. ا. مذ] (۱) رختہ۔ کپڑے یا دیوار کا ٹرا پھیندا (۲) گہرا نرم گھاؤ۔
بغال [ب. غال] [ع. ا. مذ] بغل کی جمع۔ بہت سے چتر۔
بغاوت [ب. غا. و. ت. ع. ا. مذ] (۱) سرکشی۔ نافرمانی۔ سرتابی۔ (۲) بلوہ۔ غدر۔
بعبعاً [ب. بع. غا.] [ع. ا. مذ] غیب۔ بھٹوڑی کے نیچے کے وہ بل جو اکثر فریبی کے باعث پڑ جاتے ہیں۔
بعبعاً تا [ب. بع. غا. نا.] [ع. ا. مذ] (بص) (۱) مست ہونا۔ خاص کر کبوتر یا اونٹ کے مست ہو کر بولنے کی نسبت کہتے ہیں۔ شہوت میں آنا (۲) چڑھ کرنا۔

بغل میں سونگھنا نام غریب واس [ع. ا. مذ] جو شکل و صورت سے تو شریف معلوم ہو۔ لیکن نظر سے کوہر وقت تیار۔
بغل میں لڑکا شہر میں ڈھنڈھوڑا [ع. ا. مذ] چیز تو پاس ہے اور دنیا بھر میں تلاش کی جاتی ہے۔
بغل میں مٹھی ڈالنا۔ مترندہ ہونا۔ [ف. ا. مذ]
بغلیں بجانا (۱) کسی کے نقصان، دکھ یا مصیبت پر خوش ہونا (۲) فخر کرنا۔ خوشی میں اچھلنا کودنا۔
بغلیں بھانگنا (۱) مترندہ ہونا۔ نام ہونا (۲) جواب نہ بن پڑنا (۳) پریشانی ہونا۔
بغلیں لینا [بغلوں کے بال موڑنا۔

بکولی اب۔ کولی [۱۰۵۔ ۱۰۶] سبز کپڑا جو دھان کی فصل کو نقصان پہنچاتا ہے۔
بکڑا (۱۔ ۱۰۵) مذکر معطر کا پرانا نام جو قرآن مجید میں آیا ہے۔

بکھ (۱۰۵۔ ۱۰۶) مذکر زہر۔ پس
بکھار اب۔ کھا [۱۰۵۔ ۱۰۶] مال گودام۔ سامان رکھنے کی جگہ سٹور (۲) کھنی ڈانچ کا گودام۔
بکھاری اب۔ کھا۔ ری [۱۰۵۔ ۱۰۶] مٹا دیکھیے بکھا۔

بکھان اب۔ کھان [۱۰۵۔ ۱۰۶] تعریف۔ توصیف۔ بیان (۲) تفریح تفصیل (۳) فصیحیت۔ یکا فضیلتا اردو میں صرف ذم کے پہلو سے مستعمل ہے
بکھان ڈالنا محاورہ اذیل کرنے کی غرض سے کسی کا پوشیدہ حال کھول کر بیان کرنا۔

بکھان کرنا۔ بڑا بھلا کہنا۔ بے جا بات کہنا۔ پوشیدہ حال بتا دینا
بکھانا اب۔ کھانا [۱۰۵۔ ۱۰۶] مص [۱۱] بار بار بیان کرنا (۲) راز کھولنا۔ پوشیدہ بات ظاہر کرنا (۳) بڑا کہنا۔ گائی دینا۔

بکھانکھ (۱۰۵۔ ۱۰۶) مذکر [۱۱] شکر کا میل (۲) ایک قسم کا بیل (۳) مکان، احاطہ گائے جینس باندھنے کی جگہ (۴) روغن دارنچ۔
بکھانکھانا محاورہ کچی کھانا یا شکر کا شیر یا قوام کر کے اس سے میل نکالنا۔ چنی شکر سے نکال ہوا میل پکانا۔

بکھانا بکھانا بکھ۔ راجانا [۱۰۵۔ ۱۰۶] منتشر ہو جانا (۲) گرا پڑنا۔ بیٹھے بکھانا (۳) فنا ہو کر باہر ہونا۔ ہاتھوں سے نکلا جانا۔
بکھنا اب۔ کھنا [۱۰۵۔ ۱۰۶] مٹا پراگندہ ہونا۔ منتشر ہونا۔ ستر بتر ہونا۔ پریشان ہونا (۲) خستہ ہونا۔ بکھ بکھ ہونا (۳) گرا پڑنا۔ اٹھ جانا (۴) بکھنا۔ غصے ہونا (۵) بد حال ہونا۔

بکھری (بکھ۔ ری) [۱۰۵۔ ۱۰۶] مٹا جھوپٹری۔ جھوٹا مکان۔
بکھل (بکھ۔ کھل) [۱۰۵۔ ۱۰۶] مٹا مکان، احاطہ۔
بکھی (بکھ۔ کھی) [۱۰۵۔ ۱۰۶] مٹا [۱۱] پیلو کی ہڈی کے نیچے کی جگہ (۲) بغل کے پتے کا گوشت

بکھیر (۱۰۵۔ ۱۰۶) مٹا [۱۱] وہ چیز جو بکھری جائے (۲) وہ روپیہ پیسہ جو شادی کے موقع پر دو گھانے کے سہارے سے بکھا اور کیا جاتا ہے سونا بکھیرنا اب۔ کھیرنا [۱۰۵۔ ۱۰۶] مٹا پھیلنا۔ گرانانا (۳) منتشر کرنا۔ پراگندہ بکھیرنا (۲) کھلے ڈالنا [۱۰۵۔ ۱۰۶] مذکر [۱۱] الجھاؤ۔ جنجال۔ کھڑاک (۲) جھگڑا۔ جھگڑا۔ غل شور۔ دنگا۔ فساد۔ ہنگامہ (۳) اجت۔ تکرار (۴) پھیلنا۔ ڈھالنا (۵) حرج۔ ردک (۶) وقت۔ دشواری (۷) مال

اسباب۔ انگریز کھنڈ (۸) کام۔ دھنسا (۹) تردد۔ شمش و بیچ باندھنا بکھیرنا (۱۰) محاورہ جھگڑا ختم کرنا۔ معاملہ طے کرنا۔ لڑائی بند کرنا اندر نشہ دور کرنا۔

بکھیر ڈالنا محاورہ جھگڑا ڈالنا۔ خرابی ڈالنا۔ کام بڑھانا۔ بکھیرے میں ڈالنا محاورہ جھگڑے میں ڈالنا۔ وقت میں ڈالنا غدا اب میں چھیننا۔

بکھیرنا اب۔ کھے۔ ڈالنا [۱۰۵۔ ۱۰۶] مٹا [۱۱] جھگڑا۔ فساد (۲) کام

بکھانے والا (۳) پاکھنڈی۔ مکار۔
بکھنی (بک۔ کی) [۱۰۵۔ ۱۰۶] صفت [بکھاسی بہت بائیں کرنے والا۔
بکھی (بک۔ کی) [۱۰۵۔ ۱۰۶] مٹا [۱۰] وہ کپڑا جو بٹس کے پیچھے سے کندھے پر لگا کر باندھ دیتے ہیں۔
بکھی مارنا۔ بغل کے پیچھے سے کپڑا نکال کر کندھے کے اوپر باندھنا۔
بکھیت اب۔ بکیت [۱۰۵۔ ۱۰۶] مذکر بانگ کا فن جاننے والا۔ بانگ۔ مستنوق بکھیلو اب۔ کے۔ لٹوا [۱۰۵۔ ۱۰۶] مذکر گھاس کی جڑ جس سے رسی بناتے ہیں۔
موج۔

بگ

بگ (۱۰۵۔ ۱۰۶) مٹا، باگ کا تخفیف۔ لگام۔ عنان۔ راس۔
بگ ٹٹ (۱) باگ ٹوٹی ہوئی، باگ چھوٹی ہوئی (۲) سر پٹ بے تنہا بہت تیز کھوڑے کی نسبت بولنے میں لگے

بگھوٹ۔ باگ کا ماتھے سے چھوٹ جانا (۲) کھوڑے بہت تیز چڑھانا لگا اب۔ گا [۱۰۵۔ ۱۰۶] صفت [۱۱] بھولا معصوم (۲) بے وقوف (۳) موٹا۔ بگا رتا (۴) مص [پھیلنا۔ منتشر کرنا۔ بکھیرنا۔ پھیلنا۔ بگاڑنا اب۔ گاڑنا [۱۰۵۔ ۱۰۶] مذکر [۱۱] خرابی۔ رنجش۔ سیر۔ دشمنی۔ خفی (۳) نقصان ضرر (۴) کھوٹ۔ عیب۔ نقص (۵) خطا۔ قصور۔ جرم (۶) روک۔

مرض (۷) نا انصافی (۸) بغاوت۔ سرکشی (۹) نفاق (۱۰) جھگڑا۔ ناچانی بگاڑ پھیلنا محاورہ رنجش کر لینا۔ ان بن کر لینا (۲) خراب کر دینا۔ بگاڑ کر لینا محاورہ غصے میں آنا (۳) لڑنے پر آمادہ ہونا۔ بگاڑ پڑنا محاورہ رنجش ہو جانا۔ ملال ہو جانا۔ لڑائی ہونا۔ بگاڑ دینا محاورہ خراب کر دینا۔

بگاڑ ڈالنا محاورہ رنجش کر دینا۔ دشمنی پیدا کرنا۔ بگاڑ کرنا محاورہ دشمنی ڈالنا۔ راض کرنا۔ (۲) خرابی پیدا کرنا بگاڑنا اب۔ گاڑنا [۱۰۵۔ ۱۰۶] مٹا [۱۱] خراب کرنا (۲) راض کرنا (۳) بد حال کرنا۔ اصلی حالت کو بدل دینا (۴) بد صورت کر دینا (۵) ناپاک کرنا (۶) ناکارہ کرنا (۷) بے جا سخت کرنا (۸) نقصان پہنچانا (۹) تباہ کرنا (۱۰) درغلانا۔ برگانا (۱۱) عصمت خراب کرنا (۱۲) بد چلن کرنا (۱۳) پھوڑ دینا (۱۴) مٹانا (۱۵) پریشان کرنا (۱۶) تعلقات خراب کرنا (۱۷) جھگڑا کرنا۔

بگاڑو اب۔ گا۔ ڈو [۱۰۵۔ ۱۰۶] صفت [۱۱] بگاڑنے والا (۲) فضول خرق (۳) دشمنی کرنے والا۔

بگانا اب۔ گانا [۱۰۵۔ ۱۰۶] صفت [بگانے کا بگڑا ہوا۔ اجنبی۔ بگانی اب۔ گانی [۱۰۵۔ ۱۰۶] صفت [بگانے کی تائید بگانی کیفیت پر چھینکر ناپے (۱) بٹل (۲) پرانے مال پر خرچ کرنا۔ بگرنی اب۔ رے۔ لی [۱۰۵۔ ۱۰۶] مٹا [۱۱] ایک چھوٹا سا ہاڑی پرندہ۔

بگڑا اب۔ گڑا [۱۰۵۔ ۱۰۶] مذکر [بگڑا کی ایک قسم بگڑا اب۔ گڑا [۱۰۵۔ ۱۰۶] صفت [صوکا۔ زریب (۲) جھگڑا۔ فساد۔

بگڑا ایک [ب۔ گ۔ ب۔ ل۔] مذ خراب شدہ۔ بگڑا ہوا۔ ناقص۔ ناکارہ۔ نکمٹا۔ بگڑا بیٹا اور کھوٹا بیٹا بھی کہی نہ کبھی کام آتی جانتے۔ [مثلاً] اپنی چیز کسی ہی خراب کیوں نہ ہو ضرورت کے وقت کام آتی ہے بگڑا شاعر مرثیہ گو، بگڑا گویا مرثیہ خواں [مثلاً] ادنیٰ شاعر مرثیہ گفتا ہے معمولی گویا مرثیہ پر مکتا ہے۔

بگڑا وقت۔ مصیبت کا زمانہ۔ مصیبت

بگڑا ہوا [اصف، ناراض، آزرده۔ بدوضع۔ آوارہ

بگڑا بگڑنا اب۔ گڑ۔ بگڑنا [ب۔ گ۔ ب۔ ل۔] [اصف، ناراض ہو جانا۔ خفا ہو جانا ۱۲۱] یا نئی ہو جانا [۱۳۱] جھگڑے پر آمادہ ہونا [۱۴۱] لڑ پڑنا۔

بگڑنا اب۔ گڑنا [ب۔ گ۔ ب۔ ل۔] [اصف، سنورنا کی چند خراب ہونا، عصمت کھونا ۱۳۱] ضائع ہونا [۱۴۱] بد مزہ ہونا [۱۵۱] باغی ہونا [۱۶۱] نقصان ہونا [۱۷۱] خفا ہونا [۱۸۱] فرق آنا [۱۹۱] بے آسرا ہونا [۲۰۱] غریب ہونا [۲۱۱] بد لگان ہونا [۲۲۱] بچہ بیٹھنا [۲۳۱] ماہریت بد لانا [۲۴۱] ٹھٹھا [۲۵۱] لوٹ پھوٹ جانا [۲۶۱] بے ترتیب ہونا [۲۷۱] ناپاک ہونا [۲۸۱] زہریلا ہونا [۲۹۱] معاملہ خراب ہونا امتحان میں پورا نہ اترنا [۳۰۱] شہر یا سرکوش ہونا [۳۱۱] بد چلین ہونا [۳۲۱] لڑائی ہونا [۳۳۱] عداوت ہونا۔ دشمنی ہونا۔ [۳۴۱] حالت کا غیر ہونا۔ [۳۵۱] ساکھ میں فرق آنا [۳۶۱] محبت ترک ہونا [۳۷۱] مفلس ہونا [۳۸۱] برباد ہونا۔

ڈال کر داغ دیا گیا ہو [۱۶۱] داغ دیا ہوا۔ پیاز یا مسالا۔ بگھار ڈالنا۔ بیزہ بیزہ کرنا۔ بگھار لگانا [۱۱۱] داغ کرنا [۱۲۱] شرب بن کر حقہ کا دم لینا۔ بگھارنا اب۔ گھارنا [ب۔ گ۔ ب۔ ل۔] [اصف، بھونکنا [۱۳۱] داغ دینا۔ بھونکنا [۱۴۱] شرب بن کر حقہ پینا [۱۵۱] جاموں کو تلے اور پر دو برتنوں میں رکھ کر اور پیسا ہوا نمک ڈال کر اس طرح بلانا کہ پھل پھٹ جائیں اور نمک بیوست ہو جائے۔

بگ تھس [ب۔ گ۔ ب۔ ل۔] [اصف، سیاہی مائل سفید۔ بگ کا منس کھنی کھنی ایک۔ کھنی [۱۰۵]۔ مٹ [۱۱۱] کھوٹا کا شمی [۱۲۱] ایک قسم کی کھنی جو کھوٹے کو بہت سستی ہے۔ بگھل۔ بگھلنا اب۔ گھیل۔ بگ۔ کھلے۔ لا [ب۔ گ۔ ب۔ ل۔] [اصف، راجپوتوں کے ایک قبیلے کا نام [۱۲۱] شیر کا پتیر۔ بگیرتی اب۔ گے۔ ری [ب۔ گ۔ ب۔ ل۔] [اصف، ایک قسم کی چھوٹی سی چڑیا۔ بگیلنا اب۔ گیل۔ نا [ب۔ گ۔ ب۔ ل۔] [اصف، دھیکنا۔ [۱۳۱] پھینکنا۔ بگینتی اب۔ گئے۔ نی [ب۔ گ۔ ب۔ ل۔] [اصف، وہ گائے یا اونٹ جس کا دودھ کم ہو گیا ہو۔

ب۔ ل۔

بل [ب۔ ل۔] [اصف، زور۔ طاقت۔ قوت۔ شکنجی [۱۲۱] [ب۔ گ۔ ب۔ ل۔] [اصف، فرق تفاوت مروڑ۔ اینٹھ [۱۳۱] خم۔ بچی۔ طیلھما [۱۴۱] رخ۔ سمت [۱۵۱] فرق تفاوت دوری [۱۶۱] غرور۔ ٹھنڈ [۱۷۱] قربانی۔ فدیر۔ نذر۔ بھینٹ۔ وہ قربانی جو خاص دیوتاؤں کے لیے کی جائے۔ دیوتا کا بھوک [۱۸۱] بغض۔ کینہ [۱۹۱] ریش۔

بل آنا [اصف، زور آنا۔ طاقت آنا [۲۱۱] بیچ پڑنا [۲۲۱] خم پڑنا۔ طیلھما ہونا [۲۳۱] فرق پڑنا۔ حساب میں میزان کا برابر نہ بیٹھنا [۲۴۱] شکنج پڑنا۔ سلوٹنا بل اترنا [اصف، محاورہ بیچ دور ہونا۔ غصہ دور ہونا۔ بل تل جانا [اصف، محاورہ، صدقے جانا۔ قربان ہونا۔ بل لوٹنا۔ زور۔ طاقت۔ بل بھرنا [اصف، محاورہ [۱۱۱] طاقت جتنا۔ زور دکھانا [۱۲۱] اینٹھنا۔ ناراض ہونا بل کے [۱۳۱] کھلے۔ شکنجیں [۱۴۱] آ۔ پار۔ واہ۔ وار۔ خوب۔ مرجھا۔ بل پڑنا۔ پڑ جانا [اصف، محاورہ [۱۱۱] شکنج پڑنا۔ خرابی آنا۔ [۱۲۱] ریش ہونا [۱۳۱] مروڑی پڑنا [۱۴۱] فرق پڑنا۔ بل پیر کو دنا [اصف، محاورہ [۱۵۱] بھر دے پر ناز کرنا۔ سہارے پر نازاں ہونا۔ بل دار [ب۔ ل۔] [اصف، مرط ہوا۔ بیچیدہ۔ خبیثہ۔ آٹا۔ نر بھیا۔ بل دان [ب۔ ل۔] [اصف، نذر چڑھا وا۔ دیوتا یا خدا کے نام پر قربانی۔ بل دینا [اصف، محاورہ [۱۱۱] ٹھٹھا [۱۲۱] مروڑنا [۱۳۱] اینٹھنا۔ قربانی کرنا۔ نذر چڑھانا۔ بل ڈالنا [اصف، محاورہ [۱۱۱] شکنج ڈالنا۔ بیچ ڈالنا [۱۲۱] فرق ڈالنا۔ بل سہنا [اصف، محاورہ [۱۱۱] بیچ رہنا۔ حلاوت رہنا۔ ریش رہنا۔ بل کرنا [اصف، محاورہ [۱۱۱] زور دکھانا [۱۲۱] غرور کرنا [۱۳۱] کینہ رکھنا۔

بگڑی ایک۔ بگڑی کی تاثیرت۔ خراب شدہ بگڑی بات۔ بنا نا [اصف، محاورہ [اصف، خراب معاملہ سدھارنا۔ بگڑی بات بننا [اصف، محاورہ [اصف، بگڑے معاملہ کا درست ہونا۔

بگڑی بنی [اصف، ابھی بڑی۔ نیک و بد بگڑی پر دوست بھی کنا رہ کٹل ہو جاتے ہیں [اصف، مصیبت میں کوئی ساتھ نہیں دیتا۔

بگڑی نو بگڑی ہی سہی [اصف، محاورہ [اصف، دشمنی ہوتی تو ہوتی رہے۔ بگڑی زبان [ب۔ ل۔] [اصف، مٹا اور زبان جو سخت کلامی کی عادی ہو۔ بگڑے دل کا [اصف، محاورہ [اصف، وہ شخص جس کا دل فالو میں نہ ہو۔ دل جلا۔ [۲۱۱] نڈر۔ بے باک [۲۲۱] ہر ایک سے اچھے والا۔ بگل اب۔ گل [اصف، [اصف، Bugle) کا متورہ [ب۔ ل۔] [اصف، قرنا۔ نرم۔ نرسنگا۔ بگلا اب۔ لا [ب۔ ل۔] [اصف، [اصف، ایک سفید آبی پرند [۱۳۱] [اصف]

بگلا سفید۔ وہ شخص جو بنا سب میں نیک اور باطن میں شریر ہو۔ بگلا مارے پنکھ [اصف، بے سود کام کرنا [اصف، بھوکے پیٹے میں کوشش بہت کم ہوتی ہے اس وجہ سے اس کے مارنے سے سولے ہروں کے اور کچھ بانٹنے نہیں آتا۔

بگلا کا پیر بہت سفید۔ بگلا اب۔ گولا [ب۔ ل۔] [اصف، [اصف، گرو بار۔ ہوا کا چکر۔ مرکب ہونا کے ماتحت دیکھیے۔ بگھار اب۔ گھار [ب۔ ل۔] [اصف، وہ گھی یا تیل جس میں پیاز وغیرہ

بلا کا (۱) غضب کا۔ بے انتہا۔ بے حد (۲) چالاک (۳) سخت۔
 بلا کا آدمی ہے (۱) فقیر بڑا خوشیار ہے (۲) بہت تلخی آدمی ہے۔
 بلا کا بنا ہوا (۱) مثل بہت تیز و چالاک ہے۔ بڑا فطرتی ہے۔ آفت
 غضب کا بنا ہوا ہے۔

بلا کا تیرا (۱) بند بڑا چالاک۔ بہت پھر پندلا۔
 بلا کٹنا (معاورہ) جھگڑنا ختم ہونا۔ مصیبت دور ہونا۔
 بلا کش (۱) صفت آفت بھیلنے والا۔ مصیبت برداشت کرنے والا۔
 بلا کی (۱) صفت اے حد۔ بے انتہا کی۔

بلا کی طرح (پچھے پڑنا) پلٹنا (معاورہ) سر ہوجانا۔ چمٹ جانا۔ ہر وقت
 سناخڑ رہنا۔ پیچھا نہ چھوڑنا۔

بلا کی طرح نازل ہونا (معاورہ) یکا یک تکلیف دینے کے لیے آجانا
 بلا گردان۔ دوسرے کی آفت اپنے اوپر لینے والا۔ قربان ہونے والا۔
 بلا گلے پڑنا (معاورہ) مصیبت آنا
 بلا لوں (معاورہ) قربان جاؤں۔ صدمے جاؤں۔
 بلا لینا (معاورہ) اٹنا ہونا۔ صدمے جانا (۲) نہایت سہا کرنا۔
 بلا میں پڑنا (معاورہ) مصیبت میں مبتلا ہوجانا۔ دکھ میں گرفتار ہونا
 بلا مول لینا (معاورہ) آفت یا مصیبت کو خود اپنے اوپر لینا۔
 بلا نازل ہونا (معاورہ) مصیبت آنا۔

بلا نصیب۔ بد نصیب۔ بد بخت۔
 بلا پوشش (۱) بہت شرمیلی ہونے والا (۲) جو ملے کھا جانے والا۔
 بلا تھے آسمانی۔ ناگہانی مصیبت۔ تہ خدار وہ مصیبت جو آسمان سے

نازل ہو۔ جیسے زلہ باری وغیرہ۔
 بلاٹے بے درماں۔ لاعلاج مصیبت۔
 بلاٹے جان۔ جی کا جنجال۔
 بلا میں لینا (معاورہ) واری جانا۔ صدمے جانا۔ قربان ہونا۔ سہا کرنا۔
 بلا (بلا) (۱) [بلا]۔ ڈنڈا۔ تختی۔ کرکٹ اور ٹینس وغیرہ کھیلنے
 کا آلہ۔

بلا (بلا) [بلا]۔ بے انتہا کی نغمہ۔ جھوٹا سوراخ۔
 بلا (بلا) [بلا]۔ بے انتہا کی نغمہ۔ جھوٹا سوراخ۔
 بلا (بلا) [بلا]۔ بے انتہا کی نغمہ۔ جھوٹا سوراخ۔

بلا اجازت۔ اجازت کے بغیر اجازت حاصل کیے بغیر۔
 بلا آزادہ۔ ارادے کے بغیر۔ قصد کے بغیر۔ بلا قصد۔
 بلا اشتباہ۔ بے شبہ۔ رنگ و تیسہ کے بغیر۔
 بلا اکراہ و اجبار۔ زبردستی کے بغیر۔ رضا و رغبت سے۔ اپنی خوشی سے
 بلا تامل۔ بے سوچے سمجھے غمگینے بغیر۔
 بلا تزداد۔ بے تامل۔ کسی تذبذب کے بغیر۔
 بلا تشبہ و مفہم۔ صفت بغیر نسبت جو کوئی ایسی تشبیب دیتے ہیں جو
 یا مؤثر ہو اس وقت کہتے ہیں۔

بلا تصرف (ع۔ و۔ ن۔ صفت) بغیر مداخلت کے۔
 بلا مشترک بغیرے (ع۔ و۔ ن۔ صفت) بغیر کسی شرکت کے۔ بغیر ساجھے کے۔

بلا کھانا (معاورہ) بیچ و باب کھانا، خم کھانا، ٹیڑھا ہوجانا، اکڑنا۔ اینٹھنا
 بلا کھلنا (معاورہ) بیچ و تاب دور ہونا، خم نکلنا، سیدھا ہونا، اکڑنا۔
 دور ہونا (۲) غصہ کا رفع دفع ہونا۔

بلا کی بات (۱) مٹا، سترت۔ چالاک کی۔ بیچ و دابت۔
 بلا میں آنا (معاورہ) مغرور ہونا۔
 بلا تکالفا (۱) جی دور ہونا، (۲) سزا دینا، (۳) دست کرنا۔ سیدھا کرنا۔
 (۴) صحت کرنا۔

بلا ہونا (معاورہ) آفت طائف ہونا، (۲) سہا ہونا، (۳) حساب کتاب
 میں فرق ہونا۔

بلوان۔ بلوٹ۔ زور آور۔ طاقت ور۔ شجاع۔ دلیر۔ بہادر۔
 بل [ع۔ و۔ ن]۔ سورج۔ چھید۔ حشرات الارض کے رہنے کا سوراخ
 بل ٹھونڈنا (معاورہ) چھیننا۔ ڈوبوش ہونا۔ چھپنے کی جگہ تلاش کرنا۔
 بل (Bill) [اینگ۔ و۔ ن]۔ (۱) فدر حساب (۲) مسودہ قانون (۳)
 چھوٹے چھوٹے اشتہار جو جیساں کیے جائیں یا بانٹے جائیں (۴) ہندی
 بل (بل) (معاورہ) فدر حساب کے بموجب رقم ادا کرنا۔
 بل بنانا (معاورہ) فدر حساب تیار کرنا۔
 بل پاس ہونا (۱) حساب کی فدر کا منظور ہونا، (۲) کسی مسودہ قانون کا
 منظور ہو کر قانون بن جانا۔

بلا اب (ع۔ و۔ ن]۔ سختی۔ زحمت (۲) مصیبت۔ دکھ۔ آفت۔ قہر۔
 غضب (۳) چڑھل ٹانہ۔ آسبب (۴) چست و چالاک (۵) قیامت
 غضب (۶) صفت [مصیبت ناک خوفناک (۷) ڈراؤنا (۸) بہت۔
 نہایت بے حد۔

بلا اپنے گلے باندھنا (معاورہ) کوئی مصیبت اپنے اوپر لینا
 بلا بالنا (معاورہ) بکھیرنے کی چیز اپنے ساتھ لگا رکھنا۔
 بلا پڑنا (معاورہ) جھگڑنا پیش آنا۔ مصیبت آنا۔
 بلا پیچھے لگانا (معاورہ) دکھ مول لینا، (۲) التزام لگانا۔ دکھ میں ڈالنا۔
 جھگڑنے میں پھنسا دینا۔

بلا پیچھے لگنا (معاورہ) روک پیچھے لگنا۔ مصیبت میں مبتلا ہونا۔
 بلا طلنا (معاورہ) مصیبت کا دور ہونا۔ جھگڑنے سے نجات ہونا۔
 بلا جلنے (معاورہ) کچھ خبر نہیں بلے پر ادائیگی ظاہر کرنے کے لیے کہتے ہیں
 بلا جھیلنا۔ مصیبت برداشت کرنا۔

بلا چمٹ (ع۔ و۔ ن]۔ صفت اناپ شناسپ کھانے والا
 بلا خیز (ع۔ و۔ ن]۔ صفت مصیبت انگیز۔ مصیبت ناک۔
 بلا دفع کرنا (معاورہ) مصیبت طلنا۔ تکلیف رفع کرنا۔
 بلا سر ہونا (معاورہ) خواہ مخواہ مصیبت آنا، (۲) جھگڑا کسی کا مصیبت
 میں کوئی دوسرا بھٹنے۔

بلا سر سے ٹالنا (معاورہ) مصیبت دور کرنا۔ ذمہ داری دور کرنا۔
 بلا سر لیکنا (معاورہ) تکلیف یا ذمہ داری اپنے اوپر لینا۔
 بلا سر منگھٹنا (معاورہ) التزام لگانا۔ بلا وجہ مصیبت پڑنا۔
 بلا سے (ع۔ و۔ ن]۔ متعلق مثل کیا پر داہے جوتی سے۔

بلغم طیر اب۔ لم۔ طیر [۱۔ ۵۔ مذ] (۱) والنیر (Volunteer) کا بگاڑ
 رضا کار (۲) وہ شخص جو اپنی خوشی سے فوج میں بھرتی ہو۔
 بلنا ایل۔ نا [۵۔ مص] (۱) جلنا۔ سلگنا۔ روشن ہونا (۲) بلنا۔ بل دینا
 بلند اب۔ لند [۱۔ صفت] اُدچا۔ عالی۔ برتر۔ لمبا۔ طویل۔
 بلند آشاں (۱) صفت وہ جو اپنا مکان اونچی جگہ پر بنائے۔
 بلند آواز۔ بلند آہنگ۔ اونچی آواز۔ اونچی آواز۔ بڑی سزا۔
 بلند اختر (۱) صفت خوش نصیب خوش قسمت۔
 بلند ارادہ (۱) صفت (۱) اور اعزاز۔ عالی حوصلہ۔
 بلند بالا (۱) صفت اونچے قد کا۔ دراز قد۔
 بلند پایہ۔ عالی مقام۔ اونچا مرتبہ۔ عالی مرتبہ۔
 بلند پرواز (۱) اونچا اڑنے والا (۲) عالی خیال۔ گہری فکر والا۔
 بلند پروازی (۱) عالی خیالی۔ عالی درجہ (۲) خود ستائی۔ لاف گزاف۔
 بلند حوصلہ (۱) عالی ہمت۔ دل جلا۔ جبری۔ بہادر۔ بڑا سخی۔ دلاور۔
 بلند قامت۔ اونچے قد والا۔ اونچا۔ دراز قد۔
 بلند نظر۔ نگاہ (۱) صفت بڑے حوصلے والا۔ عالی ہمت۔ چھوٹی باتوں
 پر خیال نہ کرنے والا۔
 بلندی (۱) بلند (۲) دی (۱) صفت (۱) اونچائی۔ بڑائی۔ برتری (۲)
 درازی۔ لمبائی۔
 بلندی (۱) وسیع (۲) مجازاً [آسمان و زمین۔ نشیب و فراز۔
 بلندنا اب۔ لنگ [۵۔ مص] (۱) کودنا۔ اچھل کر کودنا (۲) کسی شے
 کی طرف اٹھنا یا چڑھنا۔ (۳) لٹکانا۔ (۴) پھیلنا۔
 بلشمنی اب۔ لنگ [۵۔ مص] (۱) لنگن۔ کپڑے وغیرہ لٹکانے کی۔
 بلتی ایل۔ تی [۵۔ مص] (۱) آنکھوں کی ایک بیماری جس میں پلکیں
 چھڑھائی ہیں (۲) طاقتور عورت۔
 بلوا۔ بلوہ (بل۔ وا، بل۔ وہ) [۵۔ مذ] (۱) ہنگامہ۔ دنگ۔ فساد مکرشی۔
 بغاوت (۲) ہپل۔ بد انتظامی۔
 بلوائے عام (۱) بہت سے آدمیوں کی سرزانی (۲) عام بد انتظامی
 بلوائی۔ بلوہ کرنے والا۔
 بلوان (۵۔ صفت) طاقتور۔ بہادر۔ شجاع۔ دلیر۔
 بلوانا ایل۔ وا۔ نا ابلانا کا متعدی (۱) طلب کرنا۔ کملوانا۔
 بلوویک (۱) انگ۔ مٹ (Blue Book) (۲) ٹو۔ بک (۳) پارلیمنٹ
 خاص کاغذات (۴) خاص نوٹ بک۔
 بلوٹا اب۔ ٹوٹا [۵۔ مذ] یعنی کا بچہ۔ بلوٹا۔
 بلوچ (۱) مذ) بلوچستان کا رہنے والا۔ ایک قوم۔
 بلوچ ایل۔ ٹوٹ [۵۔ مذ] (۱) ایک چنگدار معدنی جو ہر کام (۲) صفت
 صاف۔ شفاف۔ چمک دار۔
 بلوری۔ بلورین ایل۔ ٹوری ایل۔ ٹوری (۱) صفت [بلور کی بنی ہوئی
 بلوط اب۔ ٹوٹ (۱) مذ] ایک فشر کا درخت۔ سینٹا بروجھ۔
 بلورج۔ بلورجٹ اب۔ ٹو۔ ج۔ ٹ۔ لو۔ نعت [۵۔ مذ] پملا۔ مذ۔ دوسرا
 مٹ (۲) جوانی۔ شباب۔ کمال۔ حد کو پہنچنا۔

بلٹی ایل۔ ٹی (۱) انگ (Billet) کا مہند۔ (۲) مٹ (۳) چھوٹا ٹیل۔ مال
 کی رسید جو ہاتھ یا ریلوے والوں سے ملتی ہے۔
 بلچک ایل۔ چک [۵۔ مٹ] ضرب۔ قبضہ۔ شمشیر
 بلد اب۔ لڈ [۵۔ مذ] شہر۔ نگر۔ بستی۔ جمع۔ بلدان۔
 بلدہ ایل۔ وہ [۵۔ مذ] شہر۔ نگر۔ بستی۔ قبضہ۔ جمع۔ بلاد۔
 بلدیرہ ایل۔ دی۔ یہ [۵۔ مٹ] حکم جو شہر کی صفائی اور حفظان
 صحت کے لیے ہو۔ میونسپلٹی۔ میونسپل کارپوریشن۔ جمع بلدیات۔
 بلڈاگ (Bulldog) ایل۔ ڈاگ (۱) مذ] بڑے سر کا خوفناک لٹا
 بل رائڈ ایل۔ رائڈ [۵۔ مٹ] بال بدھوا۔ چھوٹی عمر کی بچہ۔ بل بال
 بمعنی بچہ۔ کاغذ ہے (۱)
 بلسان ایل۔ سان [۵۔ مذ] مصر کے ایک مشہور درخت کا نام جس
 کے پتوں سے روغن نکلتا ہے۔
 بلستا اب۔ بس۔ نا [۵۔ مص] (۱) سکھ پانا۔ لطف اٹھانا (۲) استفاد
 میں لانا۔ برتنا۔ کام میں لانا۔ کام بکالنا۔
 بلغا اب۔ ل۔ فا [۵۔ مذ] بلیغ کی جمع۔ فاضل لوگ۔ عالم۔
 بلغم ایل۔ غم [۵۔ مذ] کف۔ کھنگار۔ انسانی چار خلطوں میں سے ایک
 بلغم آنا (مخارجہ) بلغم خارج ہونا۔
 بلغمی ایل۔ جی [۵۔ صفت] (۱) بلغم پیدا کرنے والی چیز (۲) وہ جسم
 جس میں بلغمی خلط زیادہ ہو۔ (۳) موٹا۔ چھسپھسا۔
 بلقیس ایل۔ نیس [۵۔ مٹ] (۱) مٹکا سب کا نام۔
 بلکانا ایل۔ کانا [۵۔ مص] (۱) سٹانا (۲) بے چین کرنا۔ بے قرار کرنا۔
 بلکانا اب۔ لنگ [۵۔ مص] (۱) روٹنا۔ بلکانا (۲) بے قرار ہونا۔ تپ ہونا
 بلکہ ایل۔ کر (۱) بھر جی۔ سوا۔ اس سے بڑھ کر (۲) شاید۔
 بل گوندھن (بل۔ گون۔ دھن) [۵۔ مٹ] (۱) شادی کی ایک تقریب
 جس میں عروس کے سر کے بال گوندھے جاتے ہیں (۲) لڑکیوں کے
 بال گوندھنے کی تقریب۔
 بلکلا (ب۔ ل۔ لا) [۵۔ صفت] (۱) احمق۔ لغو۔ بے ہودہ۔ بے سلیقہ۔ اول جہول
 بللے بن کی باتیں۔ بے وقوفی کی باتیں۔ وہ باتیں جن سے حماقت ظاہر ہو
 بللی ایل۔ ل۔ لی [۵۔ صفت] بلا کی تائید۔ احمق بے وقوفی۔ بچی
 بلکم۔ بلکا اب۔ لم۔ بل [۵۔ مذ] (۱) خاوند۔ خصم۔ (۲) عاشق
 بلور ایل۔ لم [۵۔ مذ] (۱) بھلا۔ برچھا۔ نیزہ (۲) عصا۔ نشان۔ بڑی لالچی
 وہ سنہری یا روپھی عصا جو میروں اور بادشاہوں کی سواری کے آگے
 لے کر چلتے ہیں (۳) شوہر۔ ماتک (۴) معشوق۔
 بلوم بردار (۱) نیزہ اٹھانے والا۔ نیزہ باز۔ (۲) وہ شخص جو بادشاہوں اور میروں
 کی سواری کے آگے عصا لے کر چلتا ہے۔ نشان لے کر چلنے والا۔
 بلمانا ایل۔ مانا [۵۔ مص] (۱) شادی کرانا۔ خاوند بنانا (۲) معشوق
 بنانا۔ مطلوب بنانا۔
 بلب اب۔ لب [۵۔ مذ] (۱) در۔ ناخبر۔
 بلبنا اب۔ لب۔ نا [۵۔ مص] (۱) در۔ کرنا۔ توقف کرنا۔
 بلبیت (۵۔ مٹ) موسیقی کی ایک دھیمی گے۔

بلو نا (ب۔ لور نا) [ہ۔ مص] متھنا۔ گھٹھو لٹا پے در پے حرکت دینا۔
 بلوں بلوں (ب۔ لوں ب۔ لوں) [ہ۔ واہ بلا۔ ہائے ہائے (۲) عسرت
 بلوں بلوں کرنا۔ محاورہ ہائے واٹے کرنا۔ حواس ٹھکانے نہ رہنا۔
 (۲) مصیبت کے مارے پیچ اٹھنا۔
 بلوئی (ب۔ لوری) [ع۔ ۱۔ مٹ] اوہ ظرت جس میں دودھ مٹھے میں
 بلہاری بلہاری ابل۔ بار۔ بل۔ ہاری صدقے۔ نصیحت۔ شہار ہونوالا
 بلہاری جاننا محاورہ واری جاننا۔ قربان جانا۔
 بلہرا (ب۔ لہ۔ را) [ہ۔ ۱۔ مذ] پان رکھنے کا لمبا ڈبہ۔
 بلہری (ب۔ لہ۔ ری) [ہ۔ ۱۔ مٹ] پلہری کی تائینت
 بللی (ب۔ لی) [ہ۔ صفت] طاقتور۔ مضبوط۔ بل والا۔ زور والا۔
 بللی ریل (ب۔ لی) [ہ۔ ۱۔ مٹ] ۱۱) لمبا باس (۲) لکڑی یا باس کا تخم (۳)
 نا ڈھینے کا باس۔
 بللی مارنا۔ چبو مارنا۔ کشتی جلانا۔
 بلیوں پانی ہونا۔ دریا میں بہت زیادہ پانی ہونا (دریا کے پانی کی مقدار
 بلیوں سے ناپتے ہیں)۔
 بللی (ب۔ لی) [ہ۔ ۱۔ مٹ] ۱۱) ایک چھوٹا سا جانور جو شیر کے مشابہ ہوتا
 ہے (۲) وہ چھوٹی لکڑی جو کواڑوں میں اس غرض سے لگی جاتی
 ہے کہ دونوں پے بند کر کے اس کو چھوڑیں تو پھر کواڑ خود
 بلی الٹنا محاورہ ابل کا سامنے ہو کر گزرتا جو محسوس سمجھا جاتا ہے۔
 (۲) آمادہ فساد ہونا (۳) بے سبب غصہ ہونا۔
 بللی بتا رہنا محاورہ مسکین صورت بنا رہنا۔
 بللی لڑتی ہے تو بیچہ منہ پر دھرتی ہے۔ (ایشل) حیوان بھی لڑنے
 میں شرم کرتے ہیں۔
 بلی جب گرتی ہے تو پتھروں کے بل (ایشل) ہوشیار آدمی اپنے
 آرام اور حفاظت کا خیال رکھنے سے
 بلی خدو اسطے چربا نہیں مارتی (ایشل) ہر شخص جو کام کرتا ہے اپنے
 نفع کے لیے کرتا ہے۔
 بلی سے چھٹھڑوں (دودھ) کی رکھوالی (ایشل) بددیانت کو
 خرابی بنانا، سچوہ کو اپن بنانا۔
 بلی کا گونہ لینے کا نہ پونٹنے کا (مشل) نکتا آدمی کسی کام کا نہیں۔
 بلی کو چھپھڑوں کے خواب (ایشل) ہر ایک کو اپنے مطلب کی سوجھی
 بلی کھلے گی نہیں تو پھیلاٹے گی ضرور (ایشل) بد ذات بے ناناہ
 نقصان پہنچاتا ہے۔
 بلی کی میاؤں سے ڈر لگتا ہے (مشل) زور آور کا رعب ہی کافی ہے
 ظالم کا خوف بہتر ہوتا ہے۔
 بلی کے اچھا گون چھینکا توٹھا (ایشل) اس چیز کا مل جانا یا ہو جانا جس
 کا سان کمان نہ ہو۔ (۲) مرد پوری ہو جانا۔
 بلی کے خواب میں چھپھڑے (ایشل) ہر شخص اپنے ہی مطلب کی

سوچتا ہے۔
 بلی لوشن۔ باپٹھ۔ ایک خوشبودار گھاس جس کی خوشبو بلی کو بہت ہی
 پسند ہے۔
 بلی نے شینہر اشیر) پڑھا بلی کو کھانے آیا (ایشل) شاگرد لٹنا
 کے مقابلے پر اٹھے لڑتے ہیں۔
 بلی (ب۔ ل) [ع۔ ۱۔ ہاں۔ کیوں نہیں۔
 بلے (ب۔ لے) [ف۔ تابع فعل] ہاں۔ بیج سے۔ درست ہے۔
 بلیات (ب۔ لی) [ع۔ ۱۔ مٹ] بلیتہ کی جمع۔ بلائیں۔ مصیبتیں۔
 بلیاں لینا (ہ۔ مص) بلائیں لینا۔ صدقے جانا۔ قربان ہونا۔
 بلیٹن (Bulletin) (ب۔ لی) [ب۔ ۱۔ مذ] سرکاری اطلاع
 پتھر نامہ۔ اہم واقعات یا بیجا کی کیفیت کی اطلاع۔
 بلیچنگ پوڈر (Bleaching Powder) (ب۔ لی) [جنگ۔ پو۔ ڈر]
 (انگ۔ ۱۔ مذ) رنگ کاٹ سفوف۔ ایک سفوف جس سے کپڑے وغیرہ
 کارنگ اور دھبے دور کرتے ہیں۔
 بلیڈ (ب۔ لیڈ) [ع۔ صفت] کند ذہن۔ غبی۔ کم عقل۔
 بلیڈ (Blade) (ب۔ لیڈ) [انگ۔ ۱۔ مذ] (۱) دھار۔ چانود وغیرہ کا پھل
 (۲) لوہے کا وہ نیز دھار ٹکڑا جس سے ڈاڑھی مونڈتے ہیں۔
 بلیڈرڈ (Billiard) (ب۔ لی) [انگ۔ ۱۔ مذ] ایک قسم کا کھیل۔
 جو میز کے اوپر لمبی چھڑوں سے کھیلا جاتا ہے۔
 بلیڈر (Blazer) (ب۔ لے) [انگ۔ ۱۔ مذ] ایک خاص کپڑے
 کارنگوں کوٹ۔ کھلاڑیوں کا۔ اکثر کالج کے طالب علموں کی درسی
 میں شامل ہوتا ہے۔
 بلیغ (ب۔ لیغ) [ع۔ صفت] (۱) پورا۔ کامل (۲) اتنا کو پہنچا ہوا۔ فاضل
 (۳) حسب موقع گفتگو کرنے والا۔ جمع۔ بلیغ۔
 بلیک مارکیٹ (Black Market) [انگ۔ مٹ] منقرہ قیمت
 سے زیادہ قیمت پر چوری مال فروخت کرنا۔
 بلیک میلر (Blackmailer) (ب۔ لیگ۔ لے۔ لہ۔) [انگ۔ ۱۔ مذ]
 افشائے راز کی دھمکی دے کر رشوت لینے والا۔
 بلیک میل کرنا (Blackmail) (ب۔ لیگ۔ میل۔ کرنا) [ا۔ ر۔ ہص]
 افشائے راز کی دھمکی دے کر روپیہ وصول کرنا۔
 بلیک میلنگ (Black Mailing) (ب۔ لیگ۔ لے۔ لنگ) [انگ۔
 ۱۔ مٹ] افشائے راز کی دھمکی دے کر روپیہ وصول کرنے کا عمل۔
 بلیبلر (ب۔ لے۔ لہ۔) [ف۔ ۱۔ مذ] ایک دوا کا نام۔ ہیپٹرا
 بلیوں دل (بلیچر) اچھلنا محاورہ سخت ڈر یا کھیل ہٹ ہونا۔ دل
 بہت دھلنا۔
 بلیٹنڈ (ب۔ لیں۔ ٹو) [ہ۔ ۱۔ مذ] (۱) چھت کی کڑی (۲) پھیر کی منڈیر
 یا بیچ کا بڑا باس۔
 بلیتہ (ب۔ لی) [ع۔ ۱۔ مٹ] بلا۔ مصیبت۔ آذت۔ آزمائش۔ جمع
 بلیات۔

ب۔ م

بم اف ۱۔ مٹا راگ یا باجے کی اونچی آواز۔ آواز کا چڑھاؤ۔ زیر کی ضد
بم۔ [۱۰۵۔ ۱۰۶] بمٹا [۱۱] چشمہ۔ سوتا [۲] غل بشور [۳] انفارہ [۴] گھجی کا باش
بم جس میں گھوڑا بھرتا جاتا ہے۔
بم بیلانا (محاورہ) خراب کرنا۔ سخت تکلیف دینا۔ نقارے کی طرح بجانا
بم بولونا۔ بے پکارنا۔
بم بھونٹنا۔ کنوئیں کی تنہ سے پانی کا زور سے نکلنا۔
بم بولیس۔ عوام کے لیے پاختر ہا شکری۔
بم بوج۔ شور و غل۔
بم بوج بجانا۔ شور و غل کرنا۔ وہائی دینا۔
بم بھارو۔ اسے ہما دیو مدد کرو۔ ہما دیو کا بول بالا۔ ہما دیو کی ہے۔
بم بنگ (Bomb) کا مورد۔ ۱۔ مذا آتش گیر مارے کا بنا ہوا۔ گولا
بم کا گولا۔

بمبار۔ بم برسانے والا ہوائی جہاز۔ (Bomber)

بمباری۔ بم برسانا خصوصاً ہوائی جہاز سے

بم کا گولا [۱] بم [۲] [مجازاً] ناگہانی مصیبت۔

بمالن اب۔ مان [۱۰۵۔ ۱۰۶] مذ [۱۱] دیوتاؤں کا رتھ۔ تخت رواں [۲] اٹن کھٹولا [۳] ہوائی جہاز۔ بیلون۔ عبارہ [۳] تابوت۔ بہت رنجی ہونی ارٹھی اس۔ بولون

بمباؤم۔ یا [۱۰۷۔ ۱۰۸] مذ [۱۱] منبع۔ چشمہ۔ نہر۔ نالی۔ نل۔

بمبوعاؤم۔ بو [۱۰۵۔ ۱۰۶] مذ [۱۱] باش [۱۲] چنڈہر بیٹے کی نلکی [۱۳] ناؤ اور بجرے کی لٹری۔

بمبو کاٹ۔ ایک قسم کا ٹھم (Bamboo Cart)

بمبو (Bumper) [بم پیرا] [بم] مذ [۱۰] موٹر کا ٹھکر روک، جو پمپرز اونچی کے آگے لگا ہوتا ہے۔

بمگش گزرتا بہ تپ راضی نشوون۔ مثل موت کی دھمکی دوگے تو تب پر راضی ہو جائے۔ زیادہ ایذا کے خوف سے انسان کھوٹھی ایذا برداشت کرنے پر راضی ہو جاتا ہے۔

بمناؤم۔ یا [۱۰۵۔ ۱۰۶] مذ [۱۱] ایک رنگ کیو تڑ۔ سرخ۔ سبز۔ زرد وغیرہ

بمبئی (بمبئی) [۱۰۵۔ ۱۰۶] مذ [۱۱] بمبئی کی تانیٹ۔ ایک رنگ کیو تڑی۔
بمبئی (بمبئی) [۱۰۵۔ ۱۰۶] مذ [۱۱] بمبئی (بمبئی) کا بیٹا۔

ب۔ ن

بکن [۱۰۵۔ ۱۰۶] مذ [۱۱] جنگل۔ جہاں کثرت سے درخت ہوں [۱۲] صحرا
بیابان۔ میدان۔ ریگستان [۱۳] باڑی [۱۴] کپاس کا پودا۔
بن باس۔ جنگل میں جا کر رہنا سننا۔ دیس نکالا۔ جلا وطنی۔
بن یاں کرنا۔ آبادی سے نکال دینا۔ جنگل میں رہنے کا حکم دینا

بن باسی جنگل میں رہنے والا۔ جنگلی [۱۲] آبادی سے باہر رہنے والا۔
بن بلاؤ۔ جنگلی بلاؤ۔ گربہ دشمنی۔ بیابانی بلا۔
بن بھانٹنا۔ جنگلی بیکنگ۔

بن بڑستھ [۵] مذ [۱۱] سنیا سی۔ سادھو۔ جنگل میں رہنے والا۔

بن بٹیر۔ جنگلی تیتیر۔
بن جاتا (محاورہ) اچھوٹا۔ مجبور ہونا [۲] اچھوٹا ہونا [۳] بارونق ہونا
وضع اختیار کرنا [۴] مصیبت پر ہونا [۵] بگڑا ہوا کام خشک ہونا۔

بن کنتا۔ ایک خار دار بونی۔

بن کرٹلا۔ جنگلی کرٹلا جو چھوٹا اور بہت کڑوا ہوتا ہے۔

بن کھنڈ۔ جنگل۔

بن کھنڈا۔ خشک جنگلی پھل

بن کھنڈی۔ ایک جنگلی درخت کا نام

بن مائس [۱۱] جنگلی۔ وحشی انسان [۱۲] انسانی صورت سے مشابہ بندہ گویلا

بن۔ بننا۔ مصدر کا صیغہ امر۔

بن آنا (محاورہ) مراد حاصل ہونا [۲] درست ہونا [۳] کارگر ہونا [۴] بس چلنا [۵] قسمت کھلنا [۶] تدبیر کارگر ہونا۔

بن آسے کا سودا (بات) ہے (مثل) بس چلنے کا کام ہے۔ موقع ملنے کی بات ہے۔

بن بنا کر۔ تیار ہو کر۔ بن سنور کے۔ سنگار کر کے۔

بن بن کر کے بگڑ جانا (محاورہ) کسی کام کا درست ہو کے خراب ہونا

بن پڑنا (محاورہ) موقع ہاتھ آنا [۲] مراد حاصل ہونا [۳] مجبور ہونا [۴] پڑتھ میں آنا [۵] ہوسکنا۔

بن کھن کے [۱۱] سچ سچا کر۔ بن سنور کر۔

بن (ع۔ ۱۰۔ ۱۱) مذ [۱۱] بیٹا۔ جمع ۱۰ بناؤ

بن [۱۰] سوا۔ بجز۔ بغیر۔ بدوں۔

بن آئی (محاورہ) ناگہانی موت۔

بن آئی مرنا (محاورہ) [۱۱] بے موت مرنا [۱۲] تاحق تباہ ہونا بے گناہ مارا جانا

بن بلائی (محاورہ) لے دوڑی بھٹک (مثل) ایک تو بلا طلب آتا اور دوسرے کھانا ساتھ لے جانے کا سامان کرنا حماقت میں داخل ہے

بن بیاہا۔ کنوارا

بن بیاہی۔ کنواری۔

بن جانے کو بوجھے بغیر واقفیت کم۔

بن جانے کون مانے (مثل) بغیر دیکھ اعتبار نہیں آتا۔

بن داموں غلام [۱۱] صفت [۱۲] مفقت کا غلام [۱۳] نہایت فرمانبردار [۱۴] نہایت زیر بار احسان۔

بن داموں کی لونٹری [۱۱] صفت۔ مٹا بے حد مطیع عورت۔

فرمانبردار عورت۔

بن روئے ماں بھی دودھ نہیں دیتی (مثل) بے طلب کچھ نہیں دیتا

بن سیوہ میوہ نہیں ایشل احمدیت کے بغیر کچھ نہیں ملتا۔

بن مارے کی تو بہ۔ ناحق کی فریاد۔ بے جا فریاد۔

بن مانگے موتی ملیں مانگے ملے نہ بھیک (مثلاً بغیر سوال کیے
 میتھی چیز مل جاتی ہے۔ لیکن جس کی طلب ہو مانگنے سے بھی نہیں ملتی۔
 بن (ع۔ ۱۔ مذ) تنوع۔ کافی۔ ایک نم کا نام ہے جسے بھون کر کھاتے ہیں
 اور چائے کی طرح جوش دے کر پیتے ہیں۔

بن (ع۔ ۲۔ مٹ) جڑ۔ بنیاد (۲) سزا۔ نوک۔
 بن گوش۔ کان کی نوک کا پھلا حصہ۔
 بن مو۔ بال کی جڑ۔

بنابنا ہوا اب۔ ناب۔ نا۔ و۔ (ع۔ ۱) صفت (۱) مرکب (۲) تیار (۳) بنا
 طے (۴) مٹ (۵) مرتب (۶) نقلی جعلی مصنوعی (۷) بے بنیاد خیالی۔ دبی
 بنا بنایا۔ بھیک۔ درست۔ تیار۔ عمل۔

بنا بیٹھنا (محاورہ) اوجھ بنائے ہونا۔ وضع اختیار کیے ہونا۔
 بنا ٹھننا۔ سنگار کیے ہوئے بنا سنورا۔ بھیک ٹھنک۔ سجا سجایا۔
 بنا رہنا (محاورہ) (۱) زندہ رہنا۔ سلامت رہنا (۲) موجود رہنا۔ حاضر رہنا
 (۳) برقرار رہنا خوش و خرم رہنا۔ سرسبز رہنا۔ آباد رہنا (۴) اقبال و
 دولت کی ترقی ہونا۔

بنالینا (۱) تیار کر لینا (۲) انتظام کر لینا۔ حاصل کر لینا پیدا کر لینا۔
 بنا اب۔ نا (ع۔ ۱۔ ۵۔ مذ) (۱) دو لھا۔ نوشہ (۲) پیارا۔ لاڈلا۔
 بنا اب۔ نا (ع۔ ۱۔ مٹ) جڑ۔ بنیاد۔ بیو۔ اصل (۲) باعث۔ سبب (۳)
 شروع آغاز۔ ابتدا۔ جمع اُبنیو

بنا برس۔ اس بنیاد پر۔ اس لیے اس وجہ سے۔
 بنا پڑنا۔ ابتدا ہونا۔ آغاز ہونا۔ تعمیر کی بنیاد رکھی جانا۔ بنیاد قائم ہونا۔
 بنا ڈالنا (۱) بنیاد رکھنا۔ ڈھنگ ڈالنا (۲) شروع کرنا۔ نیر جمانا
 بناغ علیہ۔ اس بنا پر۔ اس وجہ سے اس لیے۔

بنائے دعویٰ مرکب اضافی (۱) استغاثہ کا باعث، دعویٰ کی وجہ۔
 بنائے محاسمت (ع۔ ۱) مرکب اضافی (۱) وہ فعل جس سے نالاش کرنے
 کا حق پیدا ہوا (۲) لڑائی جھگڑے کی بنیاد۔

بنات اب۔ نات (ع۔ ۲۔ مٹ) بنت کی جمع بیٹیاں۔
 بنات الفتن۔ رسات ستاروں کا جھمکا۔ عقدر نیا۔
 بنا ورا ب۔ نا۔ ورا (ع۔ ۱۔ مذ) بندر کی جمع (بند یعنی بندرگاہ)
 بنا ورا ب۔ نا۔ ورا (ع۔ ۱۔ مٹ) بندوں کی جمع (عربی قاعدے سے)
 بند و بنیں۔

بناراضی اتان اہل کے عنوان میں لکھنے ہیں جیسے اہل بناراضی
 عدالت ماتحت۔

بناس پنی اب۔ ناس۔ پ۔ تی (ع۔ ۱۔ مٹ) (۱) نباتات، گھاس پھوس
 (۲) گھاس کی پتی۔

بناکوش اب۔ نا۔ کوش (ع۔ ۲۔ مٹ) کان کی نو
 بنا لا اب۔ نا۔ لا (ع۔ ۱۔ مذ) گوشہ کناری وغیرہ کا بانا۔
 بنامی (ب۔ بنامی) (ع۔ ۱۔ مٹ) رہن مابعد کی وہ معاملت جو دوسرے
 کے نام سے کی جائے اور اصل شخص کوئی اور ہو۔
 بنان (ب۔ نان) (ع۔ ۱۔ مذ) بنانہ کی جمع۔ انگلیوں کے سرے۔

بنانا (ب۔ نانا) (ع۔ ۱۔ مٹ) درست کرنا۔ تیار کرنا (۲) آراستہ کرنا (۳)
 تعمیر کرنا (۴) گھڑنا (۵) تصنیف و تالیف کرنا (۶) سنگار کو صاف کرنا۔
 (۷) ہنستی اڑانا۔ اجماع بنانا (۸) سنورنا۔ تہذیب سکھانا (۹) اصلاح کرنا (۱۰)
 ایجاد کرنا (۱۱) دولت مند کرنا (۱۲) حاصل کرنا۔

بناوٹ اب۔ نا۔ وٹ (ع۔ ۱۔ مٹ) (۱) ساخت (۲) تکلف تصنیع
 (۳) دکھلاؤ۔ نمود (۴) سخن سازی (۵) جھوٹ۔ مکد فریب۔ جعل سازی
 (۶) وضع۔ شکل (۷) کاریگری۔ صنعت۔

بناوٹ اب۔ نا۔ وٹ (ع۔ ۱۔ مٹ) (۱) مٹنے کی وضع۔ بنائی۔ مٹنے کا کام
 بناوٹی (ب۔ ناوٹی) (ع۔ ۱) صفت (۲) مصنوعی دکھاوے کا۔ ظاہری۔
 بناؤ اب۔ نا۔ و (ع۔ ۱۔ مذ) (۱) آراستگی۔ سجاوٹ۔ آرائش۔ سنگار۔ سنوار
 (۲) درستی۔ موافقت (۳) بنا نا مصدر سے فعل امر۔ سنوارو۔ درست
 کردو۔ بگاڑ کی ضد۔

بناؤ سنگار۔ آرائش۔ آراستگی۔
 بناؤ کرنا (محاورہ) سنگار کرنا۔ سنورنا۔ آراستہ کرنا۔
 بنائے نہ بنانا (ب۔ نا۔ اے۔ نہ۔ بن۔ نا) (ع۔ ۱) اختیار سے باہر
 ہونا۔ تدبیر کارگرنہ ہونا۔ مجبور ہونا۔

بنت اب۔ نت (ع۔ ۱۔ مٹ) (۱) ایک طرح کی توتی جس میں گھوکھوڑ سلما
 ستارا لگا ہوتا ہے۔
 بنت کی چینی۔ شیشے کے ربڑ سے جو بنت میں لٹکے ہوتے ہیں۔

بنت (ع۔ ۱۔ مٹ) لڑکی۔ دختر بیٹی۔ جمع بنات۔
 بنت البحر۔ ایک انسانوی سمندری مخلوق جس کا اوپر کا دھڑا انسانی
 شکل کا اور پچھلا مچھلی کی طرح ہوتا ہے۔ جل پری
 بنت العنب۔ لغوی معنی انور کی بیٹی۔ مراد انگوری شراب۔
 بنتی ابن۔ تی (ع۔ ۱۔ مٹ) (۱) سعادت۔ غدر خراہی (۲) عرض (۳) التجا (۴)
 منت سماجت۔

بنتا (ب۔ نٹا) (ع۔ ۱۔ مذ) کھانا پکانے کا بڑا برتن۔ پینل کا گھڑا۔
 بنتا دھار کرنا (محاورہ) (۱) بزن توڑ دینا (۲) برباد کر دینا۔ ہنس ہنس کر دنیا
 بچ (ع۔ ۱۔ مذ) (۱) خرید و فروخت۔ تجارت۔ لین دین۔ بیوپار۔ سوداگری
 (۲) رشخہ ناتا۔ (۳) پیشہ۔ کار۔ کسب۔

بج کریں گے بلٹے اور کریں گے ریس، بج گیا تھا جاٹ نے رہ
 گئے سوکے تیس (مثلاً) بیوپار کرنا بیویوں کا کام ہے۔ یعنی ہر شخص
 کو اپنا پیشہ کرنا چاہیے۔ دوسروں کی ریس سے نقصان ہوتا ہے۔
 بنجارا (ب۔ جارا) (ع۔ ۱۔ مذ) (۱) ٹٹے کا سوداگر۔ چاول کا تاجر (۲) سوداگر
 بیوپاری (۳) ایک پہاڑی قوم (۴) ایک شہر کے خانہ بدوش ہندو۔

بنجارا (ب۔ جارا) (ع۔ ۱۔ مٹ) (۱) بیوی (۲) تجاروں کا ڈیرا
 سوداگری۔ تجارت۔
 بن جانا (ع۔ ۱) مص (محاورہ) (۱) تیار ہونا۔ درست ہونا (۲) اثر ہونا مجبوری
 ہونا (۳) لگا د ہونا (۴) ملل ہونا (۵) ہونا قائم رہنا۔ سلامت رہنا۔
 (۶) کام ہونا (۷) سنور جانا (۸) تہ کاری وغیرہ تیار کرنا (۹) تعمیر ہونا۔ چنا
 جانا (۱۰) امیر ہونا۔ دولت مند ہونا (۱۱) خوش ذائقہ ہونا (۱۲) صلح ہونا۔

بن جانا (ع۔ ۱) مص (محاورہ) (۱) تیار ہونا۔ درست ہونا (۲) اثر ہونا مجبوری
 ہونا (۳) لگا د ہونا (۴) ملل ہونا (۵) ہونا قائم رہنا۔ سلامت رہنا۔
 (۶) کام ہونا (۷) سنور جانا (۸) تہ کاری وغیرہ تیار کرنا (۹) تعمیر ہونا۔ چنا
 جانا (۱۰) امیر ہونا۔ دولت مند ہونا (۱۱) خوش ذائقہ ہونا (۱۲) صلح ہونا۔

۱۳۱) بیننا - گزینا (۱۳) آراستہ ہونا (۱۵) موزوں ہونا (۱۶) حاصل ہونا۔
 ۱۶۱) بیوقوف ٹھہرنا (۱۸) بھیس بدلنا۔
 بخر ابن جمر [۱۰-۱-۱-۱] غیر زرعہ زمین (۲) ناقابل کاشت زمین (۳) جنگل۔

بخر لڑنا - غیر زرعہ زمین کو قابل کاشت بنانا
 بخر جدید - وہ زمین جس میں چار سال تک لگاتار کوئی بیج نہیں پیدا نہ ہو اور بیوہ دار و رخت بھی نہ ہوں۔
 بخر خارج اجماع - وہ غیر زرعہ زمین جس کا معاملہ نہ لیا جائے۔
 بخر قدیم - وہ زمین جو سٹے بندوست تک غیر زرعہ رہے۔
 بینجا (بج) نا [۱۰-۱-۱-۱] مص [۱۱] تجارت کرنا۔

بئج (bench) [انگ - ۱۰-۱-۱-۱] بیٹھنے کے لیے لانا تختہ جس کے نیچے پائے لگے ہوتے ہیں (۲) منصفین، جج، حکام، عدالت۔
 بینجا (بج) نا [۱۰-۱-۱-۱] مص [۱۱] پڑھنا۔ مطالعہ کرنا (۲) پڑھنے میں آنا پڑھلایا جاسکتا۔

بند [ف - ۱-۱] ند [جوڑ] عضو (۲) گرہ کا ٹھہرا (۳) روک۔ پشتہ۔ مینڈھ (۴) سہارا۔ بندھن۔ بندش (۵) ڈورا۔ فینٹہ (۶) قید۔ جیس (۷) داؤں بیچ (۸) ٹیپ کا مصرع یا شعر (۹) مسدود۔ روکا گیا (۱۰) منقل (۱۱) رکا ہوا۔ وہ پانی جو ایک جگہ ٹھہرا ہوا ہوا (۱۲) افسردہ پڑ مردہ (۱۳) کھرا ہوا تنگ (۱۴) ڈبل روٹی کی ایک قسم (۱۵) ٹھہرا ہوا (۱۶) کوچی کی ایک قسم (۱۷) خاموش چپ۔

بند باندھنا (۱) گرہ لگانا (۲) پشتہ باندھنا (۳) داؤں لگانا (۴) انتظام کرنا۔ تید کرنا (۵) پیش بندی کرنا (۶) منصوبہ کرنا (۷) روک تھام کرنا (۸) انتہت لگانا۔ بہتان جوڑنا۔

بند بندہ (۱) جوڑ جوڑ (۲) گرہ گرہ (۳) چپ۔ افسردہ پڑ مردہ۔

بند بندہ لڑنا - ہر جوڑ میں درد ہونا۔

بند بندہ بندہ کرنا - جوڑ جوڑ ایک کرنا۔ پرزے اٹھانا ٹکڑے کرنا (انگ) بند بندہ جکڑ جکڑ کرنا۔ جوڑ جوڑ میں بیٹھنا ہوجانا۔ ہر جوڑ کا بستہ ہونا۔

بند بندہ دکھنا - بدن کے ہر ایک جوڑ کا درد کرنا۔

بند بندہ چیلے کرنا۔ جوڑ جوڑ ہلا دینا۔ بہت تھکا دینا۔

بند بانی - پانی جوڑ کا ہوا ہو۔ جاری نہ ہو۔

بند بچھڑانا (۱) قسم سے آزاد کرنا (۲) فکر سے بچھڑانا (۳) جوڑ الگ کرنا۔ عضو جدا کرنا۔

بند رہنا (۱) رکا رہنا (۲) دبا رہنا (۳) خاموش رہنا۔ قید رہنا

بند سوالات۔ سوالات کی وہ فرد جو بغرض استفسار حالات مقصد متناظر کسی شخص کے پاس جوابات دینے کی غرض سے بذریعہ عدالت بھیجی جائے۔

بند سے بند جدا کرنا۔ ہر عضو کا ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔ کارٹ ڈالنا۔

بند کرنا (۱) روکنا (۲) منقل کرنا (۳) قید کرنا (۴) خاموش کرنا چپ کرنا

بند کشا و عضو تناسل کے سوانح کا بڑھ جانا۔

بند کے جائے بند میں (۱) ہی نہیں رہتے (مثل) ایہ ضروری

نہیں کہ غریب لوگ ہمیشہ غریب ہی رہیں۔

بند لگانا۔ سانب کے کانے کا منتر پڑھنے والے مریض کے جسم پر ایک پٹی باندھ دیتے ہیں کہ نہ ہر آگے نہ بڑھے۔ اسے بند لگانا کہتے ہیں۔

بند میں گرہ دینا۔ بند میں گرہ لگانا۔ یادداشت کے لیے انکر کھے کے بند میں گرہ لگانا کرنا۔

بند نہ ہونا (مجاورہ) خوف نہ کرنا۔ عاجز نہ ہونا۔ منکر نہ ہونا۔

بند و کشا و۔ بند کرنا اور کھولنا۔ صل و عقد

بند (ہوجانا) ہونا (۱) رکنا۔ ٹھنڈا (۲) مسدود ہونا (۳) کسی کام کا چالو نہ ہونا (۴) ختم ہوجانا (۵) جاری نہ رہنا (۶) چپ رہنا (۷) جکڑ جکڑ جانا (۸)

جال نہ رہنا (۹) آمد و رفت نہ رہنا (۱۰) کند ہوجانا۔ دھار موٹی ہوجانا

بند ہیندھ۔ وہ ہیندھ جس میں تے اور دست جاری نہ ہوں۔

بند ہیندھ کرنا۔ بند ہیندھ کے مرض میں مبتلا ہونا۔

بندہ (انگ) بن (Bun) کا مورہ۔ (۱) ند ایک قسم کا انگریزی کھجور۔ ڈبل روٹی کی ایک قسم۔

بند۔ بندری (بن - دی) [۱۰-۱-۱-۱] صفر نقطہ۔

بندہ (بن) [۱۰-۱-۱-۱] ند [۱۱] درختوں پر پھیل جانے والی ایک قسم کی بیل (۲) مکان جو رانج کے لیے بناتے ہیں۔ اناج کا گودام۔

بندہ (بن) [۱۰-۱-۱-۱] ند [۱۱] قشتہ۔ وہ جیکاکو ہندو ماٹھے پر لگنے میں

بندہ (بن) [۱۰-۱-۱-۱] ند [۱۱] کان کا ایک زیور۔ آؤرہ۔ گوشوارہ۔

بندہ بڑھانا (۱) بندہ کان سے اتارنا (۲) منت بڑھانا (جن عورتوں کے بچے نہیں جیتے وہ بچوں کے کان پھید کر بندہ پہناتی ہیں اور

جب بچہ بڑا ہوجاتا ہے۔ نیاز کر کے اتار لیتی ہیں۔

بندال (بن - دل) [۱۰-۱-۱-۱] بندش [۱۱] ایک قسم کی تیغ ٹھاس جو دو اگے

طور پر کام آتی ہے (۲) ایک قسم کا پھل۔

بندال پھلا۔ بندال ڈوڈا۔ بندال کا پھل۔

بندہ (بن - در) [۱۰-۱-۱-۱] ند [۱۱] ایک مشہور جانور کا نام۔ بوزنہ میمون

بندہ رانٹ۔ ایسی تقسیم جس میں تقسیم کرنے والے کا فائدہ ہو اور

جن کی چیز ہے وہ گھاس کے میں رہیں۔

بندہ بھلی۔ دکھا دے کی دھلی۔

بندہ کا (پھوڑا) کھاؤ (۱) چھانہ ہونے والا زخم۔ درد نہ ہونے کی مصیبت

بندہ کو ملی ملدی کی گرہ ہنساری بن بیٹھا (مثل) پھوڑا آدمی ذرا

سہی چیز بہت اترا لے لگتا ہے۔

بندہ کیا جانے اور ک کا سوا (۱) مثل) ناقدر اچھی چیز کی قدر نہیں

کر سکتا۔

بندہ کی دوستی حی کا جنجال (مثل) کیسے دوست سے ہمیشہ نقصان

پہنچتا ہے۔

بندہ کی طرح بچانا۔ نہایت ستانا۔ بے حد تنگ کرنا۔

بندہ کی کیا آشنائی (مثل) بے مروت کا کیا بھروسا۔

بندہ کے گلے میں موتیوں کی مالا (مثل) ذریل کو تیرتوں کی پوشاک۔

نالہ نقول کی تعریف کرنا۔ بھڑے اور ذلیل شخص کو عزت دینا۔

بند و ق بھرنا۔ بند و ق میں چھہ ڈالنا۔
 بند و ق چھتیا نا۔ بند و ق کو چھانی سے لگا کر شست باندھنا بند و
 چھوڑنے پر آمادہ ہونا۔
 بند و ق چھوٹنا۔ بند و ق چلنا۔
 بند و ق سر ہونا۔ بند و ق چلنا۔
 بند و ق کا پیکار۔ ٹوٹے دار بند و ق میں اوپر کی طرف ایک کٹوری
 سی بنی ہوتی ہے جس میں تھوڑی سی بارود رکھتے ہیں اس پیلے
 میں سوراخ ہوتا ہے۔
 بند و ق لگنا۔ بند و ق کی گولی لگنا۔
 بند و قی ابن۔ و ق (بھی) [ا۔ ا۔ ا۔] بند و ق رکھنے والا۔ قرادلی۔
 بند و ق چلانے والا۔
 بندہ ابن۔ ذہ [ا۔ ا۔] بندہ [ا۔ ا۔] غلام [۲۱] نوکر۔ ملازم [۳۱] نیاز مند غلام
 [۴۱] انسان۔ بشر آدمی [۵۱] عابد زاد۔ سر جھکا دینے والا۔ حکم ماننے
 والا۔ جمع بندگان۔
 بندہ آزادانہ۔ مذ [ا۔ ا۔] آزاد کیا ہوا غلام [۳۱] ایسا شخص جو بند ہی قیود اور
 ضروریات زندگی سے بے پروا ہو۔

بندہ بشر (ا۔ ا۔) انسان۔
 بندہ بشر ہے (مثل) سہو اور خطا انسان کی فطرت میں ہے۔
 بندہ بنا لینا۔ (محاورہ) مطیع کر لینا۔ قابو میں کر لینا۔ غلام کر لینا۔
 بندہ بے دام۔ بندہ بے درم۔ بندہ بے زر۔ مفت کا غلام۔ بہت
 اطاعت گزار۔

بندہ پرورد (ا۔ ا۔) غلام کو پالنے والا بندہ نواز [۲۱] حضور جناب حضرت
 بندہ پروردی (ا۔ ا۔) پالنے کا فعل۔ احسان۔ عنایت۔
 بندہ جوڑے بی بی رام لندھھے گیا [مثل] بندہ تھوڑا تھوڑا
 کر کے جمع کرتا ہے اور خدا ایک ہی دفعہ سارا خرچ کرادیتا ہے۔
 بندہ درگاہ (ا۔ ا۔) ملازم شاہی [۳۱] نیاز مند خادم۔ غلام۔
 بندہ زادہ (ا۔ ا۔) غلام کی اولاد۔ غلام کا بچہ۔ انکسار سے اپنے
 بیٹے کو کہتے ہیں۔

بندہ زراف (ا۔ ا۔) روپیہ کا غلام۔ لالچی جریں۔
 بندہ عاجز ہے (ا۔ ا۔) انسان مجبور ہے بے اختیار ہے [۲۱] میں مجبور ہوں
 بندہ کی خدا سے نہیں چلتی (مثل) مشیت ایزدی کے سامنے انسان
 کی کوئی تدبیر کارگر نہیں ہوتی۔
 بندہ نابھیز (ا۔ ا۔) حقیر۔ بے وقعت شخص۔
 بندہ نواز (ا۔ ا۔) غلام کو عزت دینے والا۔ مالک۔ مختار۔ حاکم۔
 بندہ نوازی (ا۔ ا۔) بندہ پروردی۔ مہربانی۔ عنایت۔

بندھ [س۔ ا۔] بند [ضمانت۔ امانت۔
 بندھا (ا۔ ا۔) دھا [۵] بھٹا [جکڑا ہوا۔ اٹکا ہوا۔ مقررہ۔
 بندھا توڑا۔ پوری پھیلنا۔
 بندھا خرچ۔ خرچ جس کی مقدار معین ہو۔
 بندھا خوب مار کھاتا ہے [مثل] مجبور کو جو چاہو، سزا دو، قابو میں

بندروالا۔ بندر بنجانے والا۔
 بندروں کی سی کونسل (مجازاً) نادانوں کی محفل
 بندر۔ بندر گاہ (بن۔ در، بن۔ درگاہ) [ا۔ ا۔] بند و ق [مجازاً]
 کے بھرنے کی جگہ۔

بندری۔ بندریا (بن۔ در، ری، بن۔ در، یا [۵]۔ ا۔) منٹ [بندری کا
 بندش (بن۔ درش) [ا۔ ا۔] منٹ [۱۱] گڑھ۔ بندھن۔ حسب موقع
 اور با ترتیب ہونا [۲۱] خیال [۳۱] سازش [۴۱] تمہید۔ اٹھان [۵۱]
 داؤن۔ گھات [۶۱] تدبیر۔ پیش بندی [۷۱] بناوٹ۔ تکلیف [۸۱]
 مسافت [۹۱] نہمت۔ الزام [۱۰۱] ترتیب الفاظ۔ عبارت کی ترکیب
 الفاظ کا ربط۔ [۱۱۱] باندھنے کا فعل یا کیفیت۔

بند کی بند۔ کی [۵]۔ ا۔] منٹ [۱۱] بوند کی تصغیر [۲۱] چھوٹے چھوٹے
 نقطے [۳۱] چھینٹے [۴۱] پھوار کی بوندیں۔

بندگان ابن۔ ذ۔ کان [ا۔ ا۔] بندہ کی جمع۔ غلام۔ خادم۔ ملازم۔
 بندگان عالی [۱۱] ملازمان حضور (تعظیماً) حضور۔ خود باروت۔
 بندگی ابن۔ ذ۔ کی [ا۔ ا۔] منٹ [۱۱] عبادت پرستش [۲۱] ی
 آداب۔ تسلیم۔ کورکش [۳۱] عجز۔ انکسار [۴۱] خدمت۔ نوکری فرمانبردار
 غلامی [۵۱] سلام۔ خدا حافظ۔

بندگی بجا لانا (محاورہ) [۱۱] سلام کرنا [۲۱] تعظیم کرنا۔ جھکتا [۳۱] آداب
 کرنا۔ حکم کی تعمیل کرنا [۴۱] فرمانبرداری کرنا۔
 بندگی بے جا کی [۱۱] مثل [ا۔ ا۔] بعد ازیں میں اپنا کچھ اختیار نہیں ہوتا
 بندگی پہنچے۔ سلام قبول ہو۔

بندگی کرنا (محاورہ) سلام کرنا [۲۱] خدا کی عبادت کرنا۔
 بندگی ابن۔ ذ۔ لی [ا۔ ا۔] منٹ [۱۱] ایک قسم کا چا دل جو وہیل کھنڈ
 میں ہوتا ہے۔
 بندگی ابن۔ ذ۔ لی [ا۔ ا۔] منٹ [۱۱] شیشے کا چھوٹا سا گول ٹکڑا جسے
 بند و عورتیں پیشانی پر لگاتی ہیں۔

بند و بست (بن۔ در، بست) [ا۔ ا۔] منٹ [۱۱] انتظام [۲۱] انتظام [۳۱]
 ضابطہ۔ قاعدہ [۴۱] سلیقہ [۵۱] زمین کی حد بندی اور انتظام تخصیلات
 [۶۱] ترتیب [۷۱] تدبیر۔ بجزیرہ۔

بند و بست اسمی دار۔ وہ بند و بست جو اسمیوں کی ترتیب سے ہو
 بند و بست اسمی۔ دائمی بند و بست۔ ایک بار مال گذاری قائم کرنا
 ہمیشہ کے لئے ایک ہی دفعہ مال گذاری کی تفصیلات کو دینا۔
 بند و بست دینی۔ زمین کے کاغذات تیار کرنا۔ مال گذاری تخصیص
 کرنا۔ محصول لگانا۔ زمین کی حیثیت اور سیدھا دار کا اندازہ کرنا۔
 بند و بست اسمی۔ عارضی بند و بست جو قانونی بند و بست تک
 کے لیے کیا جلتے۔

بند و ر، بند و ر (بن۔ در، ر، بن۔ در، ر [۵]۔ ا۔) منٹ [۱۱] باندی کی تصغیر
 معمولی سی باندی [۲۱] کم تر بند و ر [۳۱] وہ نوٹھی جسے بیوی بنا لیں۔
 بند و ق (بن۔ در، ق [ا۔ ا۔] منٹ [۱۱] گولی [۲۱] [ا۔ ا۔] وہ لوہے
 کی ٹی جس میں بارود بھر کر چھوڑتے ہیں۔ تفنگ۔ جمع بنا دین

آیا ہوا مجبور ہوتا ہے۔

بندھانی (ب.ن) وہاں ای (۵-۱۰) مٹ [بندش (۲) باندھنے کی اجرت۔
بندھک (ب.ن) دھک [۱۰-۱۵] بند [ب.ن] گروی (۲) رہن نامرتیک
بندھ گیا سو موتی رہ گیا سو پتھر (۵) مثل (جیسا کچھ بھی ہو گیا۔
غینت ہے (۲) جو کچھ ہاتھ آ گیا وہی سب کچھ ہے (۲) انسان ہنر
والا ہے تو انسان سے ورنہ حیوان۔

بندھن (ب.ن) دھن [۱۰-۱۵] بندش [ب.ن] روک مزارعت، اٹکاؤ
[۲] رگاؤ، تعلق، میل، رشتہ، ناتا (۲) وظیفہ، روزمرہ، سخاوت (۵)
دستور العمل (۲) وہ رسمی یا فینتہ جس سے کوئی چیز باندھیں۔

بندھن وار۔ پھول پتوں کا ہار جو خوشی کے موقع پر وازوں لگانے سے
بندھنا بندھنا (نا) [۱۰-۱۵] مٹ [ب.ن] لگنا (۲) بندش میں آنا، پابند ہونا۔
(۳) گرفتار ہونا، قید ہونا، پکڑا جانا، پھنسا (۳) انفر ہونا، ملازم ہونا
نوکری ہونا مقرر ہونا۔ (۵) شعر کا ٹھیک اور درست ہونا (۲) شادی
ہو جانا (۴) ضابطہ میں آنا، معمول کے مطابق کام کرنا۔

بندھنا بندھنا (نا) [۱۰-۱۵] مٹ [ب.ن] سوراخ ہونا چھدنا، پرویا جانا۔
بندھو (ب.ن) مٹ [ب.ن] س [۱۰-۱۵] رشتہ دار۔ بھائی بند، برادری، دوست
متعلقین واسطہ رکھنے والا۔

بندھو (ب.ن) بندھ [۱۰-۱۵] مٹ [ب.ن] بندھا ہوا، قیدی، اسیر (۲) پابند، قلم
خدمت کار۔

بندھو (ب.ن) بندھ [۱۰-۱۵] مٹ [ب.ن] قید کرنا (۲) پکڑنا (۳) جکڑنا
گرہ دلوانا (۲) باندھنے کا حکم دینا (۲) لازم لگانا، مجرم بنانا۔

بندھی (ب.ن) دھی [۱۰-۱۵] مٹ [ب.ن] مضمونی، مقررہ (۲) بند شدہ۔ باندھی موتی
بندھی آواز۔ وہ آواز جو گانے والے کے قابو میں ہو اور تڑپ نہ قائم رہے۔
بندھی بات (۱) ایک بات (۲) ٹھیک (۲) حسب دستور معمول کے
مطابق (۲) آفا عدہ، قانون، ضابطہ کے مطابق۔

بندھی چوڑ۔ مقررہ شوخی وہ انداز جس کی عادت پڑی ہو یا جو برابر
ہونار ہا ہو۔

بندھلی (ب.ن) کھلی کی غنچہ (۲) مجازاً (۲) غم زدہ مافردہ شخص۔
بندھی مٹھی پوشیدہ رائے (۲) سلوک، اتحاد، اتفاق، جنتھا۔ (۲)
(۳) مٹھی، مٹ [ب.ن] چپ چاپ، خاموش، بے خوف بے کھٹے
بندھی مٹھی لاکھ برابر (۲) مٹ [ب.ن] ازاداری سے اغیار بنا رہنا ہے۔ اتفاق
سے خوب کام چلتا ہے۔ یک دل آدمی لاکھوں پر فوج یاب ہوتے ہیں
بندھی (ب.ن) دی (۲) [ب.ن] مٹ [ب.ن] لوٹری۔ باندھی (۲) عاجز بخادر۔

بندھی (ب.ن) دی (۲) [ب.ن] مٹ [ب.ن] قیدی، اسیر۔
بندھی حجاز۔ قید خانہ، جیل خانہ، زندان۔

بندھی (ب.ن) دی (۲) [ب.ن] مٹ [ب.ن] روک، ممانعت (۲) ایک زیور کا نام
بندھی (ب.ن) دی (۲) [ب.ن] مٹ [ب.ن] حنفی نقطہ (۲) نشان (۳) چھوٹا سا
ٹپکا (۲) ششہ، تنگ (۵) کونج کی زمین مٹھی جو عورتیں مانتے پر
چپکاتی ہیں۔

بندھی (ب.ن) دی (۲) [ب.ن] مٹ [ب.ن] قیدی، بندھی۔

بندھلا (ب.ن) دے [۱۰-۱۵] مٹ [ب.ن] مندوؤں کی ایک قوم۔
بندھن (ب.ن) دے [ب.ن] (۱) بندھلا کی تائیت۔ بندھن قوم کی عورت۔

عطر پھیل بیچنے والی عورت۔
بندھ (ب.ن) دے [۱۰-۱۵] مٹ [ب.ن] ایک قسم کی ترکاری (۲) نصف، مٹ [ب.ن]
بندھ (ب.ن) دے [۱۰-۱۵] مٹ [ب.ن] لکڑیوں کا گٹھا (۲) گھاس بھوس کا گٹھا۔
بندھ (Bundle) (ب.ن) ٹل، (انگ) [ب.ن] پلندا، گٹھی۔ گٹھی
بندھی (ب.ن) ڈی [۱۰-۱۵] مٹ [ب.ن] آستینوں کے بغیر چھوٹا کوٹ۔ مٹھی
آستین کی فراخ کمری۔

بندھیری (ب.ن) دے [ب.ن] مٹ [ب.ن] مٹھی جس پر چھپرہ رکھتے ہیں
بندھلا (ب.ن) دے [ب.ن] مٹ [ب.ن] جنگلی سورا
جنر (ب.ن) دے [ب.ن] مٹ [ب.ن] دو گھا، نوشہ، خاند، شوہر
(۲) شادی کا گیت۔

بندھی (ب.ن) ڈی [۱۰-۱۵] مٹ [ب.ن] مٹھی کی تائیت، دھن، عروس۔
بندھ (ب.ن) دے [۱۰-۱۵] مٹ [ب.ن] اولاد، نسل، خاندان، گھرانہ، گنہ (۲) بانس کا تخت
بانس پھوڑ۔ بانس یا بید سے کام کرنے والا۔
بندھو (ب.ن) دے [ب.ن] مٹ [ب.ن] سفید دوا کا نام جو بانس کی گروں سے نکلتی ہے،
بانسوں کی کھجلی۔ وہ جگہ جہاں کثرت سے بانس ہوں۔ بانسوں کا جگلی۔
بندھی (ب.ن) سی [۱۰-۱۵] مٹ [ب.ن] بانسلی، سے۔ مٹی (۲) چھلی پٹھنے کی
ڈوری اور کٹا۔

بندھی (ب.ن) مٹ [ب.ن] مٹھی اور کھنکھیا کی درمیانی مٹھی۔
بندھی (ب.ن) مٹ [ب.ن] ایک غور و روٹی جو برقیانی
پہاڑوں پر باب دریا پیدا ہوتی ہے اور نزلہ زکام وغیرہ میں استعمال
کی جاتی ہے۔

بندھی (ب.ن) مٹ [ب.ن] مٹھی اور کھنکھیا کی درمیانی مٹھی۔
بندھی (ب.ن) مٹ [ب.ن] ایک غور و روٹی جو برقیانی
پہاڑوں پر باب دریا پیدا ہوتی ہے اور نزلہ زکام وغیرہ میں استعمال
کی جاتی ہے۔

بندھی (ب.ن) مٹ [ب.ن] مٹھی اور کھنکھیا کی درمیانی مٹھی۔
بندھی (ب.ن) مٹ [ب.ن] ایک غور و روٹی جو برقیانی
پہاڑوں پر باب دریا پیدا ہوتی ہے اور نزلہ زکام وغیرہ میں استعمال
کی جاتی ہے۔

بندھی (ب.ن) مٹ [ب.ن] مٹھی اور کھنکھیا کی درمیانی مٹھی۔
بندھی (ب.ن) مٹ [ب.ن] ایک غور و روٹی جو برقیانی
پہاڑوں پر باب دریا پیدا ہوتی ہے اور نزلہ زکام وغیرہ میں استعمال
کی جاتی ہے۔

بندھی (ب.ن) مٹ [ب.ن] مٹھی اور کھنکھیا کی درمیانی مٹھی۔
بندھی (ب.ن) مٹ [ب.ن] ایک غور و روٹی جو برقیانی
پہاڑوں پر باب دریا پیدا ہوتی ہے اور نزلہ زکام وغیرہ میں استعمال
کی جاتی ہے۔

بندھی (ب.ن) مٹ [ب.ن] مٹھی اور کھنکھیا کی درمیانی مٹھی۔
بندھی (ب.ن) مٹ [ب.ن] ایک غور و روٹی جو برقیانی
پہاڑوں پر باب دریا پیدا ہوتی ہے اور نزلہ زکام وغیرہ میں استعمال
کی جاتی ہے۔

بہن۔ بھوپچی۔
 بوآب (ع۔ا۔) مذ۔ جو کھارے۔ دربان۔
 بوآ بھنگسکو نے سلیقہ کیا۔ میانی پھاڑ کھٹنے پر مہیند (کیا) سیا
 (مثل) اس وقت بولتے ہیں جب کوئی شخص اپنے خیال میں
 عقلمندی کا کام کرے لیکن اصل میں وہ بے ذوقی ہو۔
 بوآر آب۔ وار (ا۔) مذ۔ بونے کا موسم۔

بوآسیر آب۔ و۔ سیر (ع۔ا۔) صفت۔ [ما سوری جمع (۱) پھنسیاں (۲)
 (اصطلاحاً) مفعد کی پھنسیاں۔ منسے۔ مفعد کی ایک بیماری
 بوآنا آب۔ وارنا (ا۔) مص۔ [زیج ڈالو تا۔ کاشت کرنا۔ بوآئی کرنا۔
 بوآ ٹلمر (Boiler) آب۔ وار۔ (ا۔) مذ۔ [گرم پانی کا
 برتن جو کسی مشین میں لگا ہوتا ہے اور جس میں بھاپ بنتی ہے
 بوآئی آب۔ وار (ا۔) صفت۔ [زیج بونے کا موسم (۲) زیج بونے
 کا موسم۔ بجائی۔

بوآئی آب۔ وار (ا۔) صفت۔ [دہ شکاف جو سردی یا خشکی کی وجہ
 سے پاؤں کی اڑی میں ہوجاتا ہے اور تکلیف دیتا ہے۔
 بوآئی پھلنا۔ اڑی کے شکاف کا پھٹ جانا۔

بوآئے (Boy) آب۔ وار (ا۔) صفت۔ [انگ۔ (۱) لڑکا طفل (۲) نوکر
 گھر ہونے وغیرہ کا
 بوآ (بوآ،) مذ۔ [پیٹ تختے سے (۲) مال اسباب۔ سامان مال متاع
 بوآبک (بوآبک) صفت۔ [بڑھا۔ بڑھا (۲) نابغ (۳) احمق
 بے وقوف۔

بوآ بوآ (بوآ) صفت۔ [بہن خواہر ہمیشہ (۲) وہ ذی عزت
 بوآ بھئی کنبہ جس کی گود میں بچے نے پرورش پائی ہو۔
 بوآ بوآ (بوآ) صفت۔ [دراخت کا تنہ (۲) نیلے یا حقے کی نالی۔
 بوآ بوآ (بوآ) صفت۔ [بل۔ طاقت۔ زور۔ مقدور۔ حیثیت۔
 بوآ نام (بوآ نام) (انگ) Button کا منہ۔ (۱) مذ۔ [مین۔ گھنڈی۔ تکرہ
 بوآ بول (بوآ بول) (انگ) Bottle کا منہ۔ (۱) صفت۔ [شیشہ۔ مینا
 کا رخ کا لینا برتن جس کا اوپر کا منہ یا گردن تیلی ہوتی ہے جس میں
 سیال چیزیں رکھی جاتی ہیں۔
 بوآ بول (بوآ بول) (انگ) بوتل کی بوتل پی جانا (۲) بوتل کی ساری
 شراب پی جانا۔

بوآ بول (بوآ بول) (انگ) بوتل کی بوتل پی جانا (۲) بوتل کی ساری
 شراب پی جانا۔
 بوآ بول (بوآ بول) (انگ) بوتل کی بوتل پی جانا (۲) بوتل کی ساری
 شراب پی جانا۔

بوآ بول (بوآ بول) (انگ) بوتل کی بوتل پی جانا (۲) بوتل کی ساری
 شراب پی جانا۔
 بوآ بول (بوآ بول) (انگ) بوتل کی بوتل پی جانا (۲) بوتل کی ساری
 شراب پی جانا۔

دونوں سروں پر کپڑا پہنا ہوتا ہے اور اسے آگ لگا کر سرو اور بدن کے
 بند پگھلنے ہیں۔ ایک درزش۔
 بونڈھی پھینکا اہلانا بونڈھی کی درزش کرنا۔
 بونڈھی آب۔ نے۔ (نی،) صفت۔ [بنا کی تانیت۔ بونڈھی کی جوڑ
 بونڈھی پان دمڑی کے کھائے گھر رہے کہ جہائے (مثل) انجیل
 آدمی غلوڑے خرچ کو بہت سمجھتا ہے۔

ب۔و

بوآرف۔ ا۔ صفت۔ [ما سوری (۱) ہک۔ محکم (۲) بد بو۔ سڑا (۳) خبر بھنگ
 راز (۴) آن پان۔ شان باز (۵) شہید اور تنگ کی جگہ۔
 بوآنا (۱) ہک۔ آنا۔ محکم آنا۔ خوشبو آنا (۲) بد بو آنا۔ سڑا آنا (۳) خوشبو
 کا ظاہر ہونا۔

بوآ باس (۱) جسم یا پھول کی خوشبو (۲) سراغ۔ کھوج۔ پتہ۔ نشان (۳)
 انداز طور۔ ڈھنگ روشن۔

بوآ بسا۔ بوکا سا جانا۔ بوکا کسی چیز میں اثر ہو جانا۔
 بوآ پانا۔ خبر پانا۔ سن گن جانا (۲) سمجھنے کا کسی چیز کی بوسو گدھ کر چھینا کرنا
 بوآ لگنا۔ (۱) مادہ آنا۔ (۲) میں ہونا۔

بوآ بھوشنا (مجاورہ) بوآ بھیننا (۲) افشائے راز ہونا۔ بھید کھلنا۔
 بوآ وار (۱) صفت۔ [بد بو دینے والا (۲) شکار کی بو بھرا ہوا گنا۔
 بوآ سنا (مجاورہ) (۱) بوکا لٹا (۲) پنا دینا۔ علامت ظاہر کرنا۔
 بوآ سنا (مجاورہ) کسی بات کا دل میں پھینچ جانا۔ بوکا اثر ہونا
 بوآ کا مسنت ہونا (مجاورہ) خوشبو کا نہایت خوشگوار ہونا۔

بوآ گئی بوآ گئی۔ (بھی کھال کی کھال) (مثل) نشان و شوکت جانی
 رہی اصلی حالت رہ گئی۔
 بوآ بھنگنا (۱) بوکا نرا لٹا ہونا (۲) بو آنا۔
 بو آ ہونا (مجاورہ) کھنڈی سی کوئی خاصیت ہونا۔ پھر اثر ہونا۔
 بو آئے محبت۔ ۱۱۔ صفت۔ [محبت کی علامت، محبت کا نشان۔
 بو آئے طفلی (۱) صفت۔ [لڑکپن کا اثر۔ بچپن کا اثر۔

بو آئے (۱) صفت۔ [بوکا مخففت۔ باپ۔
 بو آئے بھنگ (۱) بازی گھر۔ شہیدہ باز (۲) انوکھا۔ عجیب۔ شغف (۳)
 جبران۔ میٹر (۴) احمق۔ بے وقوف (۵) جینھا پیل کر نیوالی نٹے۔
 بو آئے الفضول۔ بجاوسی۔ وہ شخص جو بیٹھا باتیں بنایا کرے۔
 بو آئے لوموس۔ بڑا لاپٹی بہت حریف (۱) انسانی خواہشات کا بہت
 سخت حریف۔

بو آئے لوموس۔ بہت زیادہ حرص۔ نفسانی خواہشات پر بہت زیادہ چلنا
 بو آئے تراب۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت۔
 بو آئے (فعل)۔ بو آنا مقصد کا حلیف امر۔ کاشت کر۔

بو آئے (فعل)۔ بو آنا مقصد کا حلیف امر۔ کاشت کر۔
 بو آئے (فعل)۔ بو آنا مقصد کا حلیف امر۔ کاشت کر۔

بو آئے (فعل)۔ بو آنا مقصد کا حلیف امر۔ کاشت کر۔
 بو آئے (فعل)۔ بو آنا مقصد کا حلیف امر۔ کاشت کر۔

بو آئے (فعل)۔ بو آنا مقصد کا حلیف امر۔ کاشت کر۔
 بو آئے (فعل)۔ بو آنا مقصد کا حلیف امر۔ کاشت کر۔

گنڈر۔ ڈبلا۔ ناتوان ۳۱ پچیس پچسسا۔ بے مزہ۔ گلا ہوا۔ فرسودہ پرانا۔
 بودا کرنا (۱۱) بہت توڑنا (۲) ضعف و ناتوان بنانا۔
 بودلا ابرد۔ لا (۵) صفت [سیدھا سادا۔ بھولا بھالا۔ (حق بیوقوف
 بودلی (بودلی) (۵) صفت [حق بے وقوف عورت۔ بودلا کی تائینش
 بودم بے وال (ف) وال کے بغیر بودم یعنی بوم۔ اوتو۔ ہب
 بودھ۔ بدھ (۳) ۱۔ مذ [۱۱] معرفت۔ علم۔ گیان۔ لکھ (۲) بدھ مذ
 کاپیرو۔

بودی (بو۔ دی) (۵) صفت [بودا کی تائینش۔
 بودی بات (۵) (مشت) ادبھی اور بلی بات۔ رتبے سے گری ہوئی بات
 بوگر (۵) (مشت) بہ افراط خیرات کرنا (۲) پچھا اور، تشار (۳) بھوسوی پچوکر
 (۳) اخرا بی نقص۔

بور بورک۔ ٹکڑے ٹکڑے پاش پاش۔ ریزے ریزے۔ دھجی دھجی۔
 بور بور کرنا (محاورہ) ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔ ریزہ ریزہ کرنا۔
 بور کے لڈو (۵) (مذ) (۱۱) بھوسوی میں کھا لڈو کرنا ہے تو خصوصت
 لڈو (۲) دھوکا چھالنا زنی۔ دغا۔ فریب۔
 بور کے لڈو کھائے تو پچتا ہے اور نہ کھائے تو پچتا ہے (مثل)
 وہ کام جس کے کرنے پر افسوس ہو اور نہ کرنے پر حسرت ہو۔

بور (Bore) (انگ) صفت [وبال جان۔ بیزار کرنے والا۔ مغر چٹ
 بورا (بورا) (۵) (۱) مذ [باڈرا۔ باڈلا۔ دیوانہ۔ پاگل۔ سودا۔ ججنون
 بورا بن۔ سودا۔ جنون۔ دیوانگی۔
 بورا (بورا) (۵) (۱) مذ [بھیللا۔ بڑی بوری۔
 بورا (بو۔ را) (۵) (مشت) (۱) انگ [شکر سفید۔ کھانڈ جینی (۲) برادہ۔ جیون
 سفوف۔ بوڈر۔

بورانا (بو۔ نا) سودا ہو جانا۔ دیوانہ ہونا۔
 بورانی (بو۔ را) (۱) (مشت) [نلے ہوئے بینگن اور وہی سے
 ملا کر بنایا ہوا سائن۔ بینگن کا راستہ

بورڈ (Board) (انگ) ۱۔ مذ [۱۱] لکڑی کا تختہ (۲) کمیٹی۔ مجلس
 ارکان مجلس۔
 بورڈ آف ڈائریکٹرز (Board of Directors) کسی بینک یا کمپنی
 کے مالکوں کی کمیٹی۔
 بورڈ آف ریویو (Board of Revenue) (انگ) (مذ) صیفہ
 مال کا بہت اعلیٰ محکمہ۔

بورڈر (Boarder) (انگ) ۱۔ مذ [بورڈنگ ہاؤس
 میں رہنے والا طالب علم
 بورڈنگ ہاؤس (Boarding House) (انگ) ۱۔ مذ [مذ سے
 کا اقامت خانہ۔ دارالاقلم۔

بورژوا (Bourgeoisie) (انگ) ۱۔ مذ [شہری متوسط
 طبقہ۔ اجرتاگر اور دیگر سماجی قدر منزلت رکھنے والے صاحب
 جائیداد لوگ۔ سرمایہ دار۔
 بورژوائی (بورژوا) (۱) (۱) [ارصہ] صاحب ثروت لوگوں سے

منسوب ثروت و دولت سے منسوب۔
 بورسٹل انسٹی ٹیوٹ (Borstal Institute) ابرس۔ ٹیل۔ انس
 ٹی۔ ٹیوٹ (انگ) ۱۔ مذ [کم سن مجرموں کا تادیب خانہ (جیل)
 بورنی (ع) مذ [سہاگر۔ ایک دوا۔
 بورنی (بو۔ ری) (۵) صفت [۱۱] باڈلی۔ پگی۔ دیوانی (۱۲) [۱]۔ مشت [

بھٹے اور صاف کیے ہوئے جو۔
 بوری (بو۔ ری) (۵) (مشت) [پھوٹا بورا۔ ٹاٹ کا بورا جس میں غلہ کھتے
 بوریا (بو۔ ری) (۵) (مذ) [پٹا (۲) مغربیانہ بستر۔
 بوریا باف۔ چٹائی بیٹنے والا۔ چٹائی بنانے والا۔

بوریا ماندھنا، سنبھالنا (محاورہ) کوچ کرنا۔ کوچ کی تیاری کرنا۔
 بوریا نفل میں دانا (محاورہ) [مجازاً] اچلے جانا۔ زحمت ہونا۔
 بوڑھ۔ بوڑھ (۵) صفت [بوڑھی۔ عمر سیدہ۔
 بوڑا (بوڑھا) سہاگن ہو [دعا] خاندان بڑھاپے تک زندہ رہے۔
 بڑھاپے تک جوڑی قائم رہے۔ مرتے دم تک ماند نہ ہو۔
 بوڑنا (بوڑنا) (۵) (مض) [بوڑنا۔ غوطہ دینا۔ بھگونا۔

بوڑھا (بوڑھا) (۵) صفت [۱۰] مذ [ٹھا۔ کسن سال (۲) ضعیف مرد۔
 بوڑھا بال (بوڑھا) (مثل) [بوڑھے بچے کی عقل برابر ہوتی ہے۔
 بوڑھا لوک (۵) صفت [بڑھاپے میں نشوونما۔ سچ کج اور جوانی
 کے انہاز۔ حریص بوڑھا۔
 بوڑھا لونگ (۵) صفت [بے وقوف بڑھا۔ پیر فرقت۔
 بوڑھا پھولنس (۵) صفت [بہت بوڑھا۔
 بوڑھا جانے کیا بالاجانے ہیٹا۔ (مثل) بڑی عمر کا شخص کام کو دیکھتا
 ہے اور بچہ بیار کو۔

بوڑھا جوچلا (۵) مذ [بڑھاپے کا غمزہ۔ نخر۔
 بوڑھا جوچلا (جنازے کے ساتھ) (مثل) مرتے دم تک ناز و انداز
 اور سچ کج سے باز نہ آنا (ظن) [بولا جاتا ہے]
 بوڑھا جوڑنا (۵) مذ [بوڑھی عورت کے سفید بال۔ پیرانہ سال عورت
 بوڑھا خزانہ (۵) صفت [ہوشیار۔ تجربہ کار بوڑھا۔
 بوڑھا طوطا (۱) صفت [بڑی عمر کا بے وقوف آدمی۔
 بوڑھا کھسات (کھپٹ) (۱) (مشت) بہت بڑھا پیر فرقت
 بوڑھا گھاگ (۱) صفت [جہاں دیدہ بوڑھا۔ چالاک۔ ختراٹ۔
 بوڑھی (بو۔ رھی) (۵) صفت [بوڑھی تائینش۔
 بوڑھی جڑوا (۵) (مشت) [بڑی عمر کی زوجہ۔ سن رسیدہ عورت۔
 بوڑھی ڈھکڑو (۵) (مشت) [بڑھی پھولنس۔
 بوڑھی عید (۱) (مشت) [رمضان مبارک کے پورے تیس دنوں کے
 بعد کے والی عید۔

بوڑھی گھوڑی لال لگام (۱) (مثل) [بڑھاپے میں جوانوں کا سنا و سناگ
 بوڑھے (۱) صفت [بڑا بوڑھا کی جمع۔
 بوڑھے ہارے خلق (دوارے) (مثل) [بوڑھا آدمی در بدر خراب ہوتا ہے
 بوڑھے طرحے کہیں بڑھتے ہیں (مثلاً) [بیش] عمر رسیدہ لوگ علم حاصل

بوسٹل (Borstal) (انگ) ۱۔ مذ [کم سن مجرموں کا تادیب خانہ (جیل)
 بورنی (ع) مذ [سہاگر۔ ایک دوا۔
 بورنی (بو۔ ری) (۵) صفت [۱۱] باڈلی۔ پگی۔ دیوانی (۱۲) [۱]۔ مشت [

بھٹے اور صاف کیے ہوئے جو۔
 بوری (بو۔ ری) (۵) (مشت) [پھوٹا بورا۔ ٹاٹ کا بورا جس میں غلہ کھتے
 بوریا (بو۔ ری) (۵) (مذ) [پٹا (۲) مغربیانہ بستر۔
 بوریا باف۔ چٹائی بیٹنے والا۔ چٹائی بنانے والا۔

بوریا ماندھنا، سنبھالنا (محاورہ) کوچ کرنا۔ کوچ کی تیاری کرنا۔
 بوریا نفل میں دانا (محاورہ) [مجازاً] اچلے جانا۔ زحمت ہونا۔
 بوڑھ۔ بوڑھ (۵) صفت [بوڑھی۔ عمر سیدہ۔
 بوڑا (بوڑھا) سہاگن ہو [دعا] خاندان بڑھاپے تک زندہ رہے۔
 بڑھاپے تک جوڑی قائم رہے۔ مرتے دم تک ماند نہ ہو۔
 بوڑنا (بوڑنا) (۵) (مض) [بوڑنا۔ غوطہ دینا۔ بھگونا۔

بوڑھا (بوڑھا) (۵) صفت [۱۰] مذ [ٹھا۔ کسن سال (۲) ضعیف مرد۔
 بوڑھا بال (بوڑھا) (مثل) [بوڑھے بچے کی عقل برابر ہوتی ہے۔
 بوڑھا لوک (۵) صفت [بڑھاپے میں نشوونما۔ سچ کج اور جوانی
 کے انہاز۔ حریص بوڑھا۔
 بوڑھا لونگ (۵) صفت [بے وقوف بڑھا۔ پیر فرقت۔
 بوڑھا پھولنس (۵) صفت [بہت بوڑھا۔
 بوڑھا جانے کیا بالاجانے ہیٹا۔ (مثل) بڑی عمر کا شخص کام کو دیکھتا
 ہے اور بچہ بیار کو۔

بورانا (بو۔ نا) سودا ہو جانا۔ دیوانہ ہونا۔
 بورانی (بو۔ را) (۱) (مشت) [نلے ہوئے بینگن اور وہی سے
 ملا کر بنایا ہوا سائن۔ بینگن کا راستہ
 بورڈ (Board) (انگ) ۱۔ مذ [۱۱] لکڑی کا تختہ (۲) کمیٹی۔ مجلس
 ارکان مجلس۔
 بورڈ آف ڈائریکٹرز (Board of Directors) کسی بینک یا کمپنی
 کے مالکوں کی کمیٹی۔
 بورڈ آف ریویو (Board of Revenue) (انگ) (مذ) صیفہ
 مال کا بہت اعلیٰ محکمہ۔
 بورڈر (Boarder) (انگ) ۱۔ مذ [بورڈنگ ہاؤس
 میں رہنے والا طالب علم
 بورڈنگ ہاؤس (Boarding House) (انگ) ۱۔ مذ [مذ سے
 کا اقامت خانہ۔ دارالاقلم۔
 بورژوا (Bourgeoisie) (انگ) ۱۔ مذ [شہری متوسط
 طبقہ۔ اجرتاگر اور دیگر سماجی قدر منزلت رکھنے والے صاحب
 جائیداد لوگ۔ سرمایہ دار۔
 بورژوائی (بورژوا) (۱) (۱) [ارصہ] صاحب ثروت لوگوں سے

۱۳) تباہ و برباد کرنا۔ کسی رونق دار جگہ کو بے رونق کرنا۔
 بہاراں اب۔ بارہاں [ف۔ ۱۔ مذ] موسم بہار [الف نون زائد ہے]۔
 بہارن اب۔ بارہن [۱۰۔ ۱۔ مذ] جھاڑن لکھنا کے کپڑا۔
 بہارنا اب۔ بارہنا [۱۰۔ ۱۔ مذ] جھاڑو دینا۔ صاف کرنا۔
 بہارو اب۔ بارو [۱۰۔ ۱۔ مذ] جھاڑو سے ساختہ بطور تابع مستقل ہے۔
 بہاری اب۔ ہاری [۱۰۔ ۱۔ مذ] جھاڑن۔ جھاڑو۔
 بہاری اب۔ ہاری [۱۰۔ ۱۔ صف] ہندوستان کے صوبہ بہار سے منسوب [۱۰۔ ۱۔ مذ] بہار کا باشندہ [۱۰۔ ۱۔ مذ] قسم کارنگ [۱۰۔ ۱۔ مذ] ایک قسم کا نیموں [۱۰۔ ۱۔ مذ] ایک قسم کا سہرا [۱۰۔ ۱۔ مذ] کوشن جی کا نام۔
 بہاک ۵۔ مذ [۱۰۔ ۱۔ مذ] بلاول ٹھاٹھ کا ایک راگ جو رات کے وقت گایا جاتا ہے۔ اس کا مزاج پرسکون ہے۔
 بہانا اب۔ ہانا [۱۰۔ ۱۔ صف] لکھنا پانی گرانہ [۱۰۔ ۱۔ صف] پانی میں بہانا۔ پانی کی رو میں ڈالنا [۱۰۔ ۱۔ صف] ضائع کرنا [۱۰۔ ۱۔ صف] استنا بیچنا۔ کوڑیوں کے مول بیچنا۔
 بہانہ اب۔ ہانہ [۱۰۔ ۱۔ صف] عذر۔ ٹال مٹول [۱۰۔ ۱۔ صف] فریب [۱۰۔ ۱۔ صف] ظاہر داری [۱۰۔ ۱۔ صف] سبب۔ وجہ۔ وسیلہ [۱۰۔ ۱۔ صف] موقع۔ طہیب۔
 بہانہ بنانا۔ محاورہ اچیلے حوالے کرنا ٹالنا۔
 بہانہ چوراف نصف بہانہ ڈھونڈنے والا۔ جیلہ گر۔ دھوکے باز فریبی بہانہ جوتی اف۔ مٹ [۱۰۔ ۱۔ صف] جیلہ کی تلاش۔
 بہانہ چلنا۔ محاورہ اچیلہ کارگر ہونا۔ ندیر کا اثر ہونا۔
 بہانہ خوراف۔ صف مکار۔ بہانہ بنانے والا۔ فریبی۔
 بہانہ ڈھونڈنا۔ محاورہ موقع تلاش کرنا۔ جیلہ ڈھونڈنا۔ غدارش کرنا۔
 بہانہ سار اف۔ صف اچیلہ کرنے والا۔
 بہانہ کرنا۔ محاورہ اچیلے حوالے کرنا۔
 بہانہ ملنا۔ محاورہ جیلہ ہاتھ آنا۔
 بہانے سے۔ جیلے سے۔
 بہانے موت جیلے رزق [۱۰۔ ۱۔ صف] مثل موت کا کوئی سبب ہوتا ہے اور رزق پہنچنے کا کوئی جیلہ ہوتا ہے۔
 بہانم اب۔ ہانم [۱۰۔ ۱۔ صف] جمع چوپائے۔ مویشی جیون بہاؤ اب۔ ہاؤ [۱۰۔ ۱۔ صف] ڈھلاؤ۔ روانی [۱۰۔ ۱۔ صف] چڑھاؤ۔ طیفانی بہائی اب۔ ہائی [۱۰۔ ۱۔ صف] ہباء اللہ کے مذہب پیرو [۱۰۔ ۱۔ صف] اس مذہب سے متعلق۔
 بہبود پد۔ ہود [۱۰۔ ۱۔ صف] بہتری۔ نفع۔ فائدہ۔ بھلائی۔
 بہت ۵۔ صف [۱۰۔ ۱۔ صف] بہت [۱۰۔ ۱۔ صف] زیادہ۔ نہایت [۱۰۔ ۱۔ صف] [تابع فعل] کثرت سے۔ افراط سے۔
 بہت اچھا اچھا اچھا [۱۰۔ ۱۔ صف] بہت بہتر بالکل مناسب [۱۰۔ ۱۔ صف] کیا مضاف ہے۔ کیا ڈر ہے۔
 بہت اڑنا۔ محاورہ اڑن کی بینا۔ چالاک کرنا۔
 بہت بڑی عمر ہے۔ محاورہ ایسے موقع پر کہتے ہیں جب کسی شخص ذکر ہو اور وہ آجائے۔

بہت بہت پوچھنا۔ محاورہ کسی کو کسی کی مزاج پرسی کا پیغام دینا۔
 بہت بہت سلام کہنا۔ محاورہ کسی کو تاکید سے سلام کا پیغام دینا۔
 بہت چل نکلنا۔ محاورہ بہت ہوشیار یا چالاک ہو جانا [۱۰۔ ۱۔ صف] غرور کرنا۔ اڑنا [۱۰۔ ۱۔ صف] گتخ ہو جانا۔
 بہت نہاک چھانٹنا۔ محاورہ بہت کوشش کرنا۔ آوارہ گردی کرنا [۱۰۔ ۱۔ صف] بہت تلاش کرنا۔
 بہت خوب۔ کلمہ لہجہ [۱۰۔ ۱۔ صف] دیکھئے بہت اچھا۔
 بہت دم دینا۔ محاورہ بہت قریب کرنا۔ بہت کوشش کرنا۔
 بہت دن چرھنا۔ محاورہ آفتاب بلند ہو جانا۔
 بہت دن پڑے ہیں۔ محاورہ بہت دقت سے۔
 بہت دنوں یاد کرنا۔ محاورہ عرصے تک پھٹنا۔ افسوس کرنا۔
 بہت دور [۱۰۔ ۱۔ صف] زیادہ فاصلہ [۱۰۔ ۱۔ صف] بڑا چالاک۔ بہت ہوشیار۔
 بہت رات آئی۔ محاورہ رات کا کافی حصہ گزر گیا۔
 بہت سیر بیچنا۔ محاورہ بڑی کوشش کی۔ بہت سمجھایا۔
 بہت قریب زیادہ قریب [۱۰۔ ۱۔ صف] مثل قریبی کو حسد زیادہ ہوتا ہے۔
 بہت قصاصیوں میں گائے مردار [۱۰۔ ۱۔ صف] مثل بہت صلاح کاروں سے کام خراب ہوتا ہے۔
 بہت کٹ کٹی کھوڑی رہ گئی [۱۰۔ ۱۔ صف] مثل کھوڑی سی زندگی رہ گئی ہے۔
 بہت کر کے ہموما۔ کٹر۔ کینت۔ باوجود۔
 بہت کھول میل سے [۱۰۔ ۱۔ صف] محاورہ بڑا یا راز ہے۔ بہت میل جول ہے۔
 بہت ماریں آدمی تو بہ بھول جاتا ہے [۱۰۔ ۱۔ صف] مثل جب ہر طرف سے حملہ ہو تو آدمی بدحواس ہو جاتا ہے۔
 بہت مار میں رونا نہیں آتا [۱۰۔ ۱۔ صف] محاورہ بہت تکلیف میں شکایت نہیں کی جاتی۔
 بہت مٹھانی میں کیڑے پڑتے ہیں [۱۰۔ ۱۔ صف] مثل زیادہ دوستی اور بے تکلفی میں بڑائی ہو جاتی ہے۔ زیادہ میل کا نتیجہ خراب ہوتا ہے۔
 بہت نمکٹوں میں ایک ناک والا نکو [۱۰۔ ۱۔ صف] مثل بہت عیب والوں میں ایک بے عیب بھی عیب والا سمجھا جاتا ہے۔
 بہت نھکا کاتنے ہو [۱۰۔ ۱۔ صف] مثل بڑے غور سے کام لینے ہو۔
 بہت ہوگا۔ محاورہ زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا۔
 بہت ہے۔ مقولہ ابرکت ہے [۱۰۔ ۱۔ صف] نہیں ہے۔
 بہتا اب۔ ہتا [۱۰۔ ۱۔ صف] جاری ہوتا ہوا۔ تیز ہوا۔
 بہتا ہوا جوڑا۔ محاورہ جلد جلد اٹھنے سے دینے والا کسوتوں کا جوڑا بہتے پانی میں ہاتھ دھونا۔ بہتے دریا میں ہاتھ دھونا۔ بہتی گنگا میں چلو بھرنہ [۱۰۔ ۱۔ صف] مثل اچھے حالات سے فائدہ اٹھانا۔ کسی کی نیتا صی سے فائدہ اٹھانا۔
 بہنات اب۔ ہنات [۱۰۔ ۱۔ صف] کثرت۔ زیادتی۔ افراط۔ فراوانی۔
 بہتان اب۔ ہتان [۱۰۔ ۱۔ صف] [۱۰۔ ۱۔ صف] بہت۔ افسر۔ الزام [۱۰۔ ۱۔ صف] عیب۔ ہدنامی۔ کلنگ۔

بہتان مندی اف مٹا، آخر شمالی۔ اقبال مندی خوشی۔
 بہرگی (بہری) [۱۰-۱۵-مٹ] ایک شکاری پرندہ [۲۱-صفت] دہ عورت
 جس کی قوت سماعت جاتی رہے۔
 بہر باؤٹ۔ بہر با [۱۰-۱۵-مٹ] بہو کی تصغیر۔ بیٹے کی بہوی کسی پروردہ
 کوڑھے کی بہوی۔ کوڑھی کے بیٹے کی جھوڑ۔
 بہر اردقت۔ بڑی مشکل۔ مصیبت سے۔
 بہشت اب۔ بہشت [ف۔] مذ [۱۰-۱۵-مٹ] [۱۱-جنت]۔ فردوس۔ بلخ
 [۱۲-عیش و آرام کا مقام۔ فضا کی جگہ۔
 بہشت بریں (ن۔) مذ [۱۰-۱۵-مٹ] سب سے اعلیٰ درجہ کی جنت۔
 بہشت شاداوان (ن۔) شاداوانک بادشاہ گندارے جس نے خدائی
 کا دعویٰ کیا تھا اور ایک باغ تیار کر لیا تھا جسے وہ بہشت کہتا تھا۔
 اس میں اسے جانا تعین نہ ہوا۔
 بہشت کا جانور [۱-مٹ] [مجازاً] امور۔ طاؤس۔
 بہشت کا میوہ [۱-مٹ] [مجازاً] انار۔ انجیر۔
 بہشت کی قسمی [۱-مٹ] [مٹ]۔ ناچنے لگانے والی عورت۔
 بہشت کی مہو [۱-مٹ] [مٹ]۔ صفت آخر شوگر ہوا۔ نسیم سحری۔
 بہشت میں لات مارنا [۱-مٹ] [مٹ]۔ نیکوں کے ساتھ بدی سے پیش آنا [۲-مٹ]
 ماں باپ سے بدسلوکی سے پیش آنا [۳-مٹ]۔ خد کی نعمتوں کی ناشکری کرنا۔
 بہشت اب۔ ہشت [ن۔] [۱-مٹ] [مٹ]۔ سقہ۔
 بہشتن اب۔ ہشت [ن۔] [۱-مٹ] [مٹ]۔ ہشتی کی تائینٹ۔ پانی پلانے
 والی عورت۔
 بہشتی (ب۔) ہشت [ن۔] [۱-مٹ] [مٹ]۔ بہشت کا رہنے والا [۲-مٹ]۔ جنتی
 جھلا آدمی۔ نیکیو کار [۳-مٹ] [۱-مٹ] [مٹ]۔ ماشکی۔ پانی بھرنے والا ریتقا۔
 بہک اب۔ بہک [۱-مٹ] [۱-مٹ] [مٹ]۔ غلطی۔ بغزش [۲-مٹ]۔ تڑاب
 کے نشے میں بہڑ بڑھوٹ۔ بدستی [۳-مٹ]۔ ہکی بانیں۔ ایسی بانیں جن کا سر پہ
 نہ ہو۔ [۴-مٹ]۔ بھگنا مصدر کا ضعیف ام۔
 بہک اٹھنا (محاورہ) نشے میں بھگنا۔ تڑنگ میں آنا [۲-مٹ]۔ باڈی باہیں کرنا
 بڑ بڑانا [۳-مٹ]۔ غلطی کرنے۔
 بہک جانا (محاورہ) گمراہ ہو جانا۔ غلطی کرنا [۲-مٹ]۔ بدست ہو جانا۔ [۳-مٹ]
 دھوکا کھانا۔
 بہک جلتا (محاورہ) [۱-مٹ]۔ آڑنا۔ مغرور ہونا [۲-مٹ]۔ بھگانے میں آنا بدست ہونا
 بہک بہک پھینا [۱-مٹ]۔ محاورہ [۱-مٹ]۔ آڑنا۔ پھینا۔
 بہک لے جانا (محاورہ) [۱-مٹ]۔ مص [۱-مٹ]۔ کسی کو دھوکا دے کر بھگے جانا
 بہکنا (بہ۔) کا۔ نا [۱-مٹ] [۱-مٹ]۔ درغلنا۔ فریب دینا [۲-مٹ]۔ اغوا کرنا۔
 بھگے جانا [۳-مٹ]۔ غلطی کرنا [۴-مٹ]۔ جھوٹی امید بندھانا [۵-مٹ]۔ کان پھینا۔
 بدگوئی کرنا [۶-مٹ]۔ مست کرنا۔
 بہکاوا (بہ۔) کا۔ وا [۱-مٹ] [۱-مٹ]۔ دھوکا۔ فریب بھانسا۔
 بہکاوے میں آنا (محاورہ) [۱-مٹ]۔ دھوکے میں آنا [۲-مٹ]۔ حمایت پر بھولنا۔
 [۳-مٹ]۔ فریب میں آنا۔
 بہکاوٹ (بہ۔) کا۔ وٹ [۱-مٹ] [۱-مٹ]۔ دم۔ فریب بھانسا۔

بہتان اٹھانا (محاورہ) الزام لگانا۔ تہمت لگانا
 بہتان باندھنا۔ بہتان جوڑنا۔ بہتان دھرنا۔ بہتان دینا۔ بہتان رکھنا۔
 بہتان لگانا۔ الزام لگانا۔ عیب دھرنا۔
 بہتان لینا (محاورہ) اعتراض لینا۔
 بہتر اب۔ تر [ف۔] صفت [۱۱-مٹ]۔ عمدہ۔ افضل [۲-مٹ]۔ زیادہ اچھا [۳-مٹ]
 [کسی بات یا حکم کے جواب میں بہت خوب۔
 بہتر اب۔ بہت تر [۱-مٹ] [۱-مٹ]۔ ستر اور دو [۲-مٹ] [۲-مٹ]۔ اظہار کثرت کیلئے
 بہتری اب۔ تر [ف۔] صفت [۱-مٹ] [۱-مٹ]۔ بھلائی۔ نیکی۔ خوبی۔ فائدہ [۲-مٹ]
 فضیلت۔ بڑائی۔ بزرگی
 بہترین (بہ۔) تر [ن۔] [ف۔] صفت [سب سے اچھا۔
 بہترین اب۔ ہوتے۔ [۱-مٹ] [۱-مٹ]۔ بہت زیادہ۔ بہت زیادہ۔ کافی۔
 بہترین کے پاؤں بیٹھے (محاورہ) بہت کوشش کی۔ بڑی مشقت کی
 بہترینی (بہ۔) تر [ن۔] [ف۔] صفت [بہترین کی تائینٹ۔
 بہجت (بہ۔) مٹ [ن۔] خوشی۔ شادمانی۔ انتہائی مسرت۔
 بہدانہ (بہ۔) دن [۱-مٹ] [۱-مٹ]۔ ایک مشہور درو کا نام۔
 بہر عثمان۔ بہر طرح۔ بہر طریقے سے۔
 بہرا (بہ۔) [۱-مٹ] [۱-مٹ]۔ وہ شخص جو سن نہ سکے۔
 بہرا بادل۔ بہرا بھینڈ۔ اور بھانسنے والا۔
 بہرا بہشتی (بہ۔) مٹ [ن۔] [مٹ]۔ مٹ [ن۔] [مٹ]۔ مٹ [ن۔] [مٹ]۔ مٹ [ن۔] [مٹ]۔
 نیک ہونا ہے اور اناہے کی نیت نہ رکھنے کے سبب ڈالو ڈول
 رہتی ہے۔
 بہرا بچہ [۱-مٹ] [۱-مٹ]۔ وہ شخص جس کی سننے کی قوت بالکل زائل ہو گئی ہو
 بہرا شوگر (مقولہ) بہرا بڑھا لاک ہوتا ہے۔
 بہرام (بہ۔) رام [ف۔] [۱-مٹ] [۱-مٹ]۔ پانچویں آسمان کا ایک ستارہ مریخ
 [۲-مٹ]۔ عراق کے ایک بادشاہ کا نام جسے گورخر کے لشکر کا بہت شوق
 تھا اسے عام طور پر بہرام گورکھتے ہیں۔
 بہروپ (بہ۔) روپ [۱-مٹ] [۱-مٹ]۔ دھوکا۔ مکر۔ فریب [۲-مٹ]۔ سوانگ
 بھیس۔
 بہروپ بدلنا (محاورہ) بھیس بدلنا۔ سوانگ بھینا۔ تیار روپ دکھانا
 بہروپ (بھینا) لانا (محاورہ) وضع اختیار کرنا۔ سانگ بنانا۔ نئی
 حالت میں نظر آنا۔
 بہروپ (بہ۔) روپ [۱-مٹ] [۱-مٹ]۔ انتقال۔ سانگ بنانے والا [۲-مٹ]
 مکار اور فریبی شخص
 بہرہ (بہ۔) ر [ف۔] [۱-مٹ] [۱-مٹ]۔ نصیب۔ قسمت [۲-مٹ]۔ بھاگ۔
 [۳-مٹ]۔ دیر۔ خصوصاً۔
 بہرہ رکھنا (محاورہ) حصہ دار ہونا [۲-مٹ]۔ دسترس رکھنا۔
 بہرہ کھلنا (محاورہ) نصیب کھلنا۔ قسمت یاد ہونا۔ بھاگ جانا۔
 حصہ ملنا۔ دل روشن ہونا۔ [۳-مٹ]۔ بڑا بھلا کھنا۔
 بہرہ مند، بہرہ ور، بہرہ یاب (ف۔) صفت (صاحب قسمت۔
 خوش قسمت۔ فائدہ اٹھانے والا۔

بھادڑوں (بھا۔ ڈوں) [۱-۲] ہندی سال کا پانچواں مہینہ جو نصف است سے نصف ستمبر تک رہتا ہے۔
بھادڑوں سے بچے تو پھر ملیں گے (مثلاً) اگر بھادڑوں میں زندہ رہے تو پھر ملیں گے (بھادڑوں میں اکثر وبا میں پھیلتی ہیں۔)
بھادڑوں کا بھالا (۱) [بھادڑوں کی بارش جو مقدار میں کم ہوتی ہے مگر زوردار ہوتی ہے۔]

بھادڑوں کا بھلا ایک سینک سوکھا ایک گلہ (۱)۔ (مثلاً) بھادڑوں کی بارش عام نہیں ہوتی ہے تھوڑی سی ایک جگہ تھوڑی سی دوسری جگہ۔ یہاں بٹالہ سے کام لیا گیا ہے۔
بھادڑوں میں برکھا ہووے تو کال پھو کھڑو رووے (مثلاً) بھادڑوں کی بارش فصلوں کے لیے اچھی ہوتی ہے۔ بھادڑوں کی بارش سے فط کا خطرہ نہیں رہتا۔

بھادڑوں کی بھرن۔ بھادڑوں کے مینے کی بارش جسے تالاب و کھیت وغیرہ بھر جلتے ہیں۔

بھادڑوں (۱) [بھادڑوں کی بارش]۔ (۱) ناگوار۔ (۱) اجیرن۔
بھادڑوں (۱) [بھادڑوں کی بارش]۔ (۱) ناگوار۔ (۱) اجیرن۔
بھادڑوں (۱) [بھادڑوں کی بارش]۔ (۱) ناگوار۔ (۱) اجیرن۔

بھادڑوں (۱) [بھادڑوں کی بارش]۔ (۱) ناگوار۔ (۱) اجیرن۔
بھادڑوں (۱) [بھادڑوں کی بارش]۔ (۱) ناگوار۔ (۱) اجیرن۔
بھادڑوں (۱) [بھادڑوں کی بارش]۔ (۱) ناگوار۔ (۱) اجیرن۔

بھادڑوں (۱) [بھادڑوں کی بارش]۔ (۱) ناگوار۔ (۱) اجیرن۔
بھادڑوں (۱) [بھادڑوں کی بارش]۔ (۱) ناگوار۔ (۱) اجیرن۔
بھادڑوں (۱) [بھادڑوں کی بارش]۔ (۱) ناگوار۔ (۱) اجیرن۔

بھادڑوں (۱) [بھادڑوں کی بارش]۔ (۱) ناگوار۔ (۱) اجیرن۔
بھادڑوں (۱) [بھادڑوں کی بارش]۔ (۱) ناگوار۔ (۱) اجیرن۔
بھادڑوں (۱) [بھادڑوں کی بارش]۔ (۱) ناگوار۔ (۱) اجیرن۔

بھادڑوں (۱) [بھادڑوں کی بارش]۔ (۱) ناگوار۔ (۱) اجیرن۔
بھادڑوں (۱) [بھادڑوں کی بارش]۔ (۱) ناگوار۔ (۱) اجیرن۔
بھادڑوں (۱) [بھادڑوں کی بارش]۔ (۱) ناگوار۔ (۱) اجیرن۔

بھادڑوں (۱) [بھادڑوں کی بارش]۔ (۱) ناگوار۔ (۱) اجیرن۔
بھادڑوں (۱) [بھادڑوں کی بارش]۔ (۱) ناگوار۔ (۱) اجیرن۔
بھادڑوں (۱) [بھادڑوں کی بارش]۔ (۱) ناگوار۔ (۱) اجیرن۔

بھادڑوں (۱) [بھادڑوں کی بارش]۔ (۱) ناگوار۔ (۱) اجیرن۔
بھادڑوں (۱) [بھادڑوں کی بارش]۔ (۱) ناگوار۔ (۱) اجیرن۔
بھادڑوں (۱) [بھادڑوں کی بارش]۔ (۱) ناگوار۔ (۱) اجیرن۔

اور خیمہ و طرگاہ۔
بھیرا (ب) ہے۔ [۱-۲] ہلیدہ۔ ایک قسم کی ہڑ
بھیمہ (ع)۔ [۱-۲] ہلیدہ۔ ایک قسم کی ہڑ
بھیمہ (ع)۔ [۱-۲] ہلیدہ۔ ایک قسم کی ہڑ

بھ

بھا بھرا (بھا۔ بھرا) [۱-۲] ایک قسم کی لمبی گھاس جس سے
ریساں بٹی جاتی ہیں (۱) [۱-۲] ہلیدہ۔ ایک قسم کی ہڑ
بھائی۔ بھائی (بھا۔ بھا) [۱-۲] ہلیدہ۔ ایک قسم کی ہڑ
بھاپ [۱-۲] ہلیدہ۔ ایک قسم کی ہڑ

بھاپ بھانا (بھا۔ بھانا) [۱-۲] ہلیدہ۔ ایک قسم کی ہڑ
بھاپ [۱-۲] ہلیدہ۔ ایک قسم کی ہڑ
بھاپ [۱-۲] ہلیدہ۔ ایک قسم کی ہڑ
بھاپ [۱-۲] ہلیدہ۔ ایک قسم کی ہڑ

بھائی (بھا۔ بھائی) [۱-۲] ہلیدہ۔ ایک قسم کی ہڑ
بھائی [۱-۲] ہلیدہ۔ ایک قسم کی ہڑ

بھاپ [۱-۲] ہلیدہ۔ ایک قسم کی ہڑ
بھاپ [۱-۲] ہلیدہ۔ ایک قسم کی ہڑ
بھاپ [۱-۲] ہلیدہ۔ ایک قسم کی ہڑ

بھاپ [۱-۲] ہلیدہ۔ ایک قسم کی ہڑ
بھاپ [۱-۲] ہلیدہ۔ ایک قسم کی ہڑ
بھاپ [۱-۲] ہلیدہ۔ ایک قسم کی ہڑ

بھاپ [۱-۲] ہلیدہ۔ ایک قسم کی ہڑ
بھاپ [۱-۲] ہلیدہ۔ ایک قسم کی ہڑ
بھاپ [۱-۲] ہلیدہ۔ ایک قسم کی ہڑ

بھاپ [۱-۲] ہلیدہ۔ ایک قسم کی ہڑ
بھاپ [۱-۲] ہلیدہ۔ ایک قسم کی ہڑ
بھاپ [۱-۲] ہلیدہ۔ ایک قسم کی ہڑ

بھاپ [۱-۲] ہلیدہ۔ ایک قسم کی ہڑ
بھاپ [۱-۲] ہلیدہ۔ ایک قسم کی ہڑ
بھاپ [۱-۲] ہلیدہ۔ ایک قسم کی ہڑ

بھاپ [۱-۲] ہلیدہ۔ ایک قسم کی ہڑ
بھاپ [۱-۲] ہلیدہ۔ ایک قسم کی ہڑ
بھاپ [۱-۲] ہلیدہ۔ ایک قسم کی ہڑ

بھارٹ سے نکالا بھٹی میں جھونکا [مٹل] کم مصیبت سے نکال کے زیادہ مصیبت میں ڈال دیا۔
 بھارٹ میں پڑے (جلنے) دغاے ہے۔ جو لھے میں جائے آگ لگے ہمارے کس کام کا۔
 بھارٹ میں پڑے وہ سونا جس سے ٹوکس کان (مٹل) سنگارا متا ہی زبا سے جو تکلیف کا موجب نہ ہو۔ بھاری مالی ڈال کر کان نوڑ لینے کا کیا فائدہ۔ وہ دولت کس کام کی جو تکلیف کا سبب بنے۔
 بھارٹ میں جھونکنا۔ بھارٹ میں ڈالنا (محاورہ) آگ میں ڈالنا (۲۷) اضلاع کرنا (۳۱) تذکرہ کرنا۔ نام نہ لینا۔
 بھارٹ (بھا۔ ڈا) [۵۔ ۱۔ ۱۱] کڑیہ۔ محصول۔ اجرت (۲) دودھ دینے والی گائے یا بھیس کا خاص جہاز جو دودھ دینے سے بند نہیں کیا جائے۔
 بھارٹے کا ٹوٹا (صف) (۱۱) کڑے کا ٹھوس [بھارٹ] وہ چیز جس کی ہمیشہ مرمت ہوتی رہے (۳۱) کام کرنے کے لیے نشتے کا محتاج (۳۱) وہ شخص جو اجرت پر کام کرے۔
 بھاشا (بھاشا) [س۔ ۱۔ مٹ] [۱۱] زبان۔ بولی (۲) روزمرہ کی گفتگو (۳) ہندی زبان۔
 بھاکا۔ بھاگھا۔ بھا۔ کا۔ بھا۔ کھا۔ [۵۔ ۱۔ مٹ] دیکھیے بھاشا۔
 بھاگ [۵۔ ۱۔ ۱۲] حصہ۔ بھاگ [مٹ] [۲۱] قسمت۔ نصیب (۳) ورثہ (۲) محصول (۵) تقسیم (۶) اقبال مندی۔ خوش نصیبی۔
 بھاگ (۱) بھاگنا۔ مسدک کا امر۔ چلے جاؤ۔ چل دو۔
 بھاگ بھری (۵) صف۔ مٹ (۱۱) خوش نصیب عورت (۲) ہندو عورتوں کے ایک ننوار کا نام (۳) [طنز] بد قسمت عورت
 بھاگ چھوٹنا (محاورہ) قسمت بگڑنا۔
 بھاگ جاگنا، بھاگ کھلنا، بھاگ لگنا (محاورہ) قسمت کا اچھا ہونا۔ عزت پانا۔ اچھے دنوں کا آجانا۔ خوش حال ہونا۔
 بھاگ لگنا (محاورہ) نصیب جاگنا۔ قسمت کھلنا۔ دن پھرنا۔
 بھاگوان (۱۱) اقبال مند۔ صاحب نصیب (۲) دولت مند (۳) سخی۔ فیاض (۴) سعادت مند۔ بھلا بانتس۔ شریف (۵) صاحب اولاد۔ دودھ دینے والا (طنز) بد نصیب۔ بد قسمت۔
 بھاگ بھاگ، بھاگ بھاگ، بھاگ بھاگ (۵۔ ۱۔ مٹ) (۱۱) بھانسنے کی پھل (۲) تاریخ فعل آتیری اور جلدی سے جھپٹ کر بھاگتے بھوت (چور) کی لنگوٹی ہی سہی (مٹل) اجاتی ہوئی چیز یا ڈوبتی ہوئی رقم کا جو حصہ بھی مل جائے قیمت ہے۔
 بھاگتے راستہ نہ ملنا (۵) میں (جواب نہ بن پڑنا۔ جواب دینے کے قابل نہ رہنا۔ عاجز اور مغلوب ہو جانا۔
 بھاگتے کے آگے مارتے کے پیچھے (مٹل) ابرزد اور نامرد شخص کی نسبت بولتے ہیں جو بہادری کی لاف مارتے مگر کرکھینے کے۔
 بھاگ جانا (۵) صف (۱۱) فرار ہو جانا جانا (۲) پیٹھ دکھانا (۳) ہمت ہار دینا (۴) شکست کھاؤ (۵) کام چھوڑ دینا (۶) بے وفائی کرنا

بھ، حسب وعدہ پورا نہ آتا (۸) آتیری سے جانا۔
 بھاگ بھاگ (۵۔ ۱۔ مٹ) [۱۱] بھاگ (دوڑنا) شکست (۲) بے پروسانی سے بھاننا۔
 بھاگ بھاگ (مٹل) (محاورہ) پھیل چنا۔ شکست ہو جانا۔ بد انتظامی ہونا بے ترتیبی۔
 بھاگنا (بھاگ۔ نا) [۵۔ مص] [۱۱] دوڑنا۔ فرار ہونا (۲) پیٹھ دکھانا (۳) بے پروسانی سے بھاننا (۴) بے وفائی کرنا۔
 بھاگ بھاگ (بھاگ۔ کو) [۵۔ صف] بھاگ جانے والا۔ بھاگ بھاگ بھاگوں بھاگ کرنا (۱۱) محاورہ (بھاگ بھاگے پرتلا ہونا۔ دوڑے دوڑے آنا۔ بھاگتے پر آمادہ ہونا۔
 بھال (۵۔ ۱۔ مٹ) [۱۱] راجپوتوں کی ایک ذات (۲) برہمنی کا پھل یا پتی (۳) تیرکی نوک۔ سنگین کی نوک (۴) دیکھ کے ساتھ بطور تابع فعل مستقل ہے۔ (دیکھ بھال)
 بھالا (بھالا۔ لا) [۵۔ ۱۔ مٹ] بڑھنا۔ بڑھنا۔
 بھالنا (بھالنا۔ نا) [۵۔ مص] دیکھنا۔ تلاش کرنا (دیکھنا کے ساتھ بطور تابع مستقل ہے۔
 بھالو (بھالو۔ کو) [۵۔ ۱۔ مٹ] بڑھنا۔
 بھان [۵۔ ۱۔ مٹ] [۱۱] سورج۔ آفتاب (۲) اجالا۔ نور۔ چمک (۳) [مٹ] ریزگاری۔ ریزہ ٹیکڑا (۴) بہن [ق] بھاننا (بھاننا۔ نا) [۵۔ مص] [۱۱] پسند آنا۔ بھلا لگنا۔ گوارا ہونا (۲) راستا بھاننا لینا (۱۱) محاورہ) جانچ لینا۔ سمجھ لینا۔ ناٹ لینا۔ پہچان لینا۔ بھاننا بھاننا (نا) [۵۔ مص] [۱۱] صورت سے جانچ لینا (۲) ناٹنا۔ پہچاننا (۳) غور سے دیکھنا۔
 بھانپو (بھان۔ پو) [۵۔ ۱۔ مٹ] بھانپنے والا۔ جانچنے والا۔ ناٹو۔ ناٹو والا بھانت (۵۔ ۱۔ مٹ) [۱۱] طرح۔ قسم (۲) انداز۔ طور۔ طریقہ۔ رنگ دھنگ وضع قطع۔
 بھانت بھانت (کا) [۵۔ مص] طرح طرح کا مختلف قسموں کا۔ الگ الگ وضع قطع کا۔
 بھانت بھانت کی بولیاں بولنا (۵) صف اپنی اپنی رائے کے مطابق باتیں کرنا۔ مختلف آوازیں نکالنا۔
 بھانتیا بھانتیا (یا) [۵۔ ۱۔ مٹ] ایک عمدہ قسم کا کبوتر جس میں مختلف رنگ ہوتے ہیں۔
 بھانج [۵۔ ۱۔ مٹ] [۵۔ ۱۔ مٹ] (۲) جو روپیہ بھانتے وقت دیتی پڑے (۲) روٹے کا خوردہ۔
 بھانجا (بھان۔ جا) [۵۔ ۱۔ مٹ] [۱۱] بہن کا بیٹا۔ ہمشیر زادہ۔
 بھانجنا (بھانج۔ نا) [۵۔ مص] [۱۱] رسی کا بٹنا۔ بل دینا (۲) فرسے کو موڑنا چھپے ہوئے کا غڈوں کو تر کرنا۔
 بھانچی (بھان۔ جی) [۵۔ ۱۔ مٹ] [۱۱] بہن کی بیٹی۔ خواہرزادی۔
 بھانچی بھانچی (بھان۔ جی) [۵۔ ۱۔ مٹ] [۱۱] روک۔ آٹھ (۲) برائی (۳) چغلی

بھاجی خورد (اصف) کسی لی بھلائی میں رخصت ڈالنے والا چلتی گاڑی
 نہیں روٹا اٹھکانے والا۔ حثل انداز (۲) چغل خورد
 بھاجی مارنا اچھا دورہ رخصت ڈالنا۔ حثل انداز ہونا (۲) چغلی گھانا بھاری ڈال
 بھانڈا (۱-۱۰) منڈ (۱۱) انقال (سرخ ۲) پیٹ کا ہلکا (۳) بھوئی ٹمر بھت
 کسے لے والا (۴) کسی کی برائی بیان کرنے والا (۵) راز فاش کرنے والا
 بھانڈ بھکتے (۱) منڈ انقالوں کا پیشہ کرنے والے۔
 بھانڈا اچھاں (۱-۱۰) منڈ (۱۱) منٹی کا برتن۔ مٹکا (۲) بھیدہ باز۔
 پوشیدہ بات۔
 بھانڈا بھوٹ جانا بھوٹنا (مجاورہ) بھیدہ کھل جانا۔ راز افشا ہونا۔
 بھانڈا بھوٹ۔ راز فاش کرنے والا۔ پیٹ کا ہلکا چغل خورد۔
 بھانڈا بھوٹنا (۱) راز فاش کرنا (۲) عیب کا کھولنا۔ نقص کا ظاہر کرنا
 بھانٹا (۱-۱۰) منٹ [بھنگ۔
 بھان منٹی (۱) بھان م۔ منٹی (۱-۱۰) منڈ (۱۱) مداری، شجبہ باز (۲) دھوک باز
 نرنبی۔
 بھان منٹی کا سوانٹا (۱) منڈ (۱۱) تماشا جو بھان منٹی دکھاتے ہیں (۲)
 [مجازاً] دم معاملہ جو سمجھ میں نہ آئے۔ حیرت انگیز بات۔
 بھان منٹی نے کدھوڑا کہیں کی اچھٹ کہیں کا روٹ (۱) بھٹل
 بے سیل رشتہ بنتا۔ وہی تباہی لوگوں کا جمع۔
 بھانٹا (۱) بھان منا (۱-۱۰) منڈ (۱۱) بل دینا (۲) خراب ہو کر بھٹنا (۳) گھانا
 پھینا (۴) رٹنا بار بار کہنا۔ (۵) توڑنا
 بھاؤ۔ بھاؤری (بھان۔ ورا بھان۔ وری (۱-۱۰) منٹ] بھنور
 گڑش۔ چکر۔
 بھاؤری پھرتا (مجاورہ) (۱) گرد پھرتا۔ قریان ہونا (۲) بند وڈوں کی رسم
 کے مطابق عروس و نورستہ کا ساتھ ساتھ آگ کے گرد طواف کرنا تاکہ
 پیارہ ملل ہو جائے۔
 بھاؤریں (بھا۔ وریں) (۱) نزدیک۔ حسابوں (۲) اثر خیال توہ
 (۳) خواہ۔ چاہے۔
 بھاوج (بھا۔ ورج) (۱-۱۰) منٹ] بھائی کی بیوی۔
 بھاؤ (بھا۔ و) (۱-۱۰) منڈ (۱۱) حالت۔ کیفیت۔ روپ۔ رنگ۔
 ڈھنگ۔ طور طریق (۲) مول قیمت۔ دام۔ نرخ (۳) شرح (۴) سمجھ
 منٹ (۵) عادت (۶) محبت۔ الفت (۷) خیزہ ناز واد (۸) عزت۔
 خاطر تواضع۔
 بھاؤ اترا (مجاورہ) نرخ ازراں ہونا۔ قیمت گھٹنا۔ سستا ہونا۔
 بھاؤ تبتا (مجاورہ) (۱) حالت ظاہر کرنا (۲) نرخ بنانا (۳) نالج گانے
 میں ہاتھوں آنکھوں یا دوسرے اعضاء کے اشاروں سے گیت کے
 مضمون کا نقشہ کھینچنا۔ راگ کے مضمون کی تصویر کھینچنا۔
 بھاؤ رگٹنا (مجاورہ) نرخ خراب کرنا۔
 بھاؤ رگٹنا (مجاورہ) نرخ خراب ہونا۔
 بھاؤ بننا (مجاورہ) قیمت طے ہو۔ سودا چکنا
 بھاؤ بھانا (مجاورہ) مول گھٹ کر قدر کم کرنا۔ کم قیمت سے قدر کر لینا

بھاؤنا (۱) منڈ (۲) قیمت (۳) کیفیت۔ حالت
 بھاؤ تبتیر (مجاورہ) قیمت چڑھنا۔ نرخ بڑھنا۔ گرماں ہونا۔
 بھاؤ بھٹنا۔ نرخ بڑھنا۔ قیمت زیادہ کرنا۔
 بھاؤ بھٹنا (مجاورہ) قیمت بڑھنا۔ نرخ بڑھنا۔
 بھاؤ بھٹنا (مجاورہ) نرخ مقرر کرنا۔ نرخ طے کر لینا۔
 بھاؤ بھٹنا (مجاورہ) مول چکانا قیمت طے کرنا۔ مول کا فیصد کر لینا۔
 بھاؤ بھٹنا (مجاورہ) بھاؤ گھٹنا۔ بھاؤ اترا۔ قیمت کم ہو جانا۔
 بھاؤ بھٹنے جانے (مجاورہ) [مجازاً] بھاری قیمت پر کسی کا زور نہیں چلتا۔
 بھاؤ بھٹنا (مجاورہ) نرخ مقرر ہونا۔
 بھائی (۱) بھا۔ (۱-۱۰) منڈ (۱۱) برادر۔ حقیقی۔ مجازاً بھائی (۲) رشتہ کا
 بھائی (۳) رفیق۔ دوست۔ ساتھی (۴) آدمی کو خطاب کرنے کا عام طریقہ
 بھائی بند (۱) منڈ (۲) ہم قوم۔ ہم مذہب۔ رفیق رشتہ دار۔
 بھائی بندی (۱) منڈ (۱۱) برادری۔ رشتہ دار (۲) بھانٹ۔
 بھائی جیسا دوست نہیں بھائی جیسا دشمن نہیں [مثلاً] بھائی
 دوستی کرے تو سب سے بڑھ کر گناہ ہے اور دشمنی پر اتر آئے تو دشمنی
 بھی سب سے بڑھ کر گناہ ہے۔
 بھائی چارہ (۱) منڈ (۲) دوستی۔ سچی دوستی (۳) خوب میل جول۔
 بھائی دور پروسی ٹیڑھے (مثلاً) ہمسایوں کے ساتھ بھائیوں سے زیادہ
 اچھے تعلقات ہونے چاہئیں۔
 بھائیوں (بھائیوں) (۱) صاف [خونک۔ ہیبت ناک۔ ڈراؤنا۔
 بھائیوں بھائیوں کرنا (مجاورہ) بے آباری کی وجہ سے جگہ کو خونک معلوم ہونا
 بھجھاس (بھجھ۔ بھاس) (۱-۱۰) منڈ (۱۱) ایک راگ کا نام۔
 بھجھک (بھجھک۔ بھجھ۔ بیک) (۱-۱۰) منڈ (۱۱) گرم بھاپ۔
 (۲) شعلے کی بھڑک (۳) تیز بڑبڑ۔ تقصن۔
 بھجھکا (بھجھکا۔ بھجھ۔ بھجھ) (۱) منڈ (۲) عرق پھینچنے کا نظریہ
 (۳) شعلہ (۴) تقصن کا چھوڑنا۔
 بھجھکتا (بھجھکتا) (بھجھ۔ بیک۔ بھجھ۔ بیک) (۱-۱۰) منڈ (۱۱) منڈ (۱۲) بھجھکتا
 خوب کھولنا۔ (۲) شعلہ اٹھنا۔ بھڑک اٹھنا۔ آگ لگنا (۳) غرانا غصہ ہونا
 بھجھکی (بھجھکی) (بھجھ۔ کی) (۱-۱۰) منڈ (۱۱) گھڑی۔ دھمکی۔
 بھجھکی دینا (مجاورہ) بھجھکیاں دینا شخص کی شکل بنا کر ڈرانا۔ دھمکانا۔
 بھجھکی میں آجانا (مجاورہ) ڈر جانا۔ دھمکی میں آجانا۔
 بھجھوت۔ بھجھوت (بھجھ۔ بوت۔ بھجھ۔ بھوت) (۱-۱۰) منڈ (۱۱) وہ رکھ
 جو جوگی یا سنیاسی لوگ اپنے بدن پر ملتے ہیں۔
 بھجھوت رمانا (مجاورہ) فقروں کا اپنے جسم پر رکھ ملنا (۲) فقیر ہونا۔
 بھجھو کا (بھجھ۔ بھو) (۱-۱۰) منڈ (۱۱) آگ کا شعلہ۔ انگارہ (۲) صاف گرم
 وکتہ ہونا (۳) غضب ناک۔ لال چپلا (۴) نہایت سرخ۔ بہت روشن
 چک دار۔
 بھجو کا بننا (مجاورہ) غضب ناک ہونا۔ آگ جگلا ہونا (۲) مجازاً

سرخ پڑھے پننا۔

بھبھو کے اکھٹا (مجاوردہ) شعلے اکھٹا۔ آگ لگنا (۲۱) حسد کرنا جلنا اکھٹنا
بھپرا (بھ۔ پانا) [۱۵۔ ۱۰۔ مندر] جوش دی ہوئی دوا۔ (۲۱) دم۔ فریب۔
جھوٹ (۳۱) بھاپ (۲۱) ابال (۵) دھونی۔

بھپرا دینا (مجاوردہ) (۱۱) بھاپ دینا (۲۱) سینگ دینا (۳۱) فریب دینا
بھپراسے دینا (مجاوردہ) بھاپنا دینا۔ دم دلاسا دینا۔ فریب دینا۔
دھوکا دینا۔

بھپراسے میں آنا (مجاوردہ) دھوکے میں آنا۔ جُل میں پھینسا۔
بھپنوری (بھ۔ پوری) [۱۵۔ ۱۰۔ مندر] ایک قسم کی مورچی جو پیاروں کی
غذا ہے۔

بھتتا (بھتت) [۱۵۔ ۱۰۔ مندر] اُبلے ہوئے جاول کا خشک (۲) خوراک۔ سفر
خرچ (۳۱) دھرم جو ملازم کو تنخواہ کے علاوہ ملے۔ (۱۰) ڈنک۔
بھت لکھیا (بھت۔ لکھ۔ یا [۱۵۔ ۱۰۔ مندر] بھت [بھت] کی لکھیا۔ چھوٹی
ہند بھابھیں لڑکیوں کی پکانی ہوتی چیزیں۔

بھتتا (بھتت) نا [۱۵۔ ۱۰۔ مندر] بھوت کی تصغیر نہا پاک روح پر لید
بھننے کی چٹھی (۵۔ مندر) لڑکیوں کا ایک ٹھیل۔
بھننی (بھنت) [۱۵۔ ۱۰۔ مندر] [۱۱] پٹیل۔ بلا [۱۲] مانا [۱۳] بد صورت
عورت (۳) لڑکا کا عورت۔

بھنی (بھت) [۱۵۔ ۱۰۔ مندر] کسی کے مرنے پر عزیزوں کے گھر سے آیا
ہوا کھانا۔
بھنی بھول [بھدعا] کچھے روٹوں تو مچائے تیری موت بکھانا بکاؤ
بھنی کھانا (مجاوردہ) کسی کے مرنے پر اس کے قریبی رشتہ کے گھر
سے آئی ہوئی روٹی کھانا (۲۱) ماتم کرنا۔

بھنی کھائے (بددعا) ماتم کرے۔ رستے پیٹے۔
بھنیج (بھ۔ تیج [۱۵۔ ۱۰۔ مندر] بھلیجا کا مخفف۔ مرکبات میں استعمال
ہوتا ہے۔

بھتیجہ ہوا [۱۵۔ ۱۰۔ مندر] بھتیجے کی بیوی۔
بھتیج (اماد) (۱۵۔ ۱۰۔ مندر) بھتیجہ کا خاند۔ بھانی کی بیٹی کا شوہر
بھتیجہ (بھ۔ تیج) [۱۵۔ ۱۰۔ مندر] بھانی کا بیٹا۔ برادر زادہ۔
بھتیجہ (بھ۔ تیج) [۱۵۔ ۱۰۔ مندر] بھانی کی بیٹی۔

بھٹ (اس۔ ۱۔ مندر) (۱۱) فار۔ کھوہ۔ (۲۱) سانپ کا بل (۳۱) ہینڈل
کا ایک فرقہ (۳۱) جوتھا۔ بھٹی
بھٹ پڑے (مجاوردہ) بھٹا میں جائے۔ تنہا ہو۔ بریاد ہو۔
بھٹ پڑے وہ سونا جس سے لوہے میں کان (مثل) دیکھیے
بھٹا میں پڑے وہ سونا۔

بھٹ تیتے۔ ایک قسم کا تیتہ جس کا رنگ سیاہی مائل ہوتا ہے
بھٹا (بھٹ) [۱۵۔ ۱۰۔ مندر] [۱۱] اینٹ یا چونا پکانے کی بھٹی۔
بھٹا لگانا (مجاوردہ) [۱۱] چونا اینٹ پکانے کا کارخانہ لگانا (۲۱) بھٹے
میں اینٹیں پکانے کے لیے آگ دینا۔
بھٹا (بھٹ) [۱۵۔ ۱۰۔ مندر] جوار کی وغیرہ کی بالی۔ سٹا۔

بھٹا سا اڑانا (مجاوردہ) ایک ہی ضرب میں چیز کا کاٹ دینا۔
بھٹنے کی بالی۔ جوار کی وغیرہ کا بھٹا پکنے سے پہلے۔

بھٹا چارج (بھٹا چارج) بھٹ۔ چارج۔ چار۔ بہ [اس۔ ۱۰۔ مندر]
بہت بڑا عالم (۲۱) بنگالی برہمنوں کا ایک بڑا خطاب۔

بھٹک (بھٹک) [۱۵۔ ۱۰۔ مندر] گڑھی۔ سیدھی راہ سے دُوری۔
(۲۱) کوٹے ہوئے لوہے کی خاک [۱۳] صف [فورا]۔ جلدی۔

بھٹکا پھرنا (بھٹکا۔ پھرنا) [۱۵۔ ۱۰۔ مندر] ڈنکوں کو بھٹانا۔ آواز پھرنا
بھٹکانا (بھٹکا۔ کانا) [۱۵۔ ۱۰۔ مندر] دھوکا دینا (۲۱) گمراہ کرنا۔ ڈکاؤ ڈول پھرنا
بھٹکاؤ (بھٹکا۔ کا۔ او) [۱۵۔ ۱۰۔ مندر] دوسو سہ ترقو۔
بھٹکے پھرنا [۱۵۔ ۱۰۔ مندر] جیلان اور سرگرداں پھرنا (۲۱) جستجو کرنا۔ تلاش
کرنا۔ (۳۱) بھولا بھٹکا پھرنا۔ گم ہونا۔ راہ بھول جانا۔

بھٹ کھٹا (بھٹکھٹ) گٹائی [۱۵۔ ۱۰۔ مندر] بھٹک۔ یا، بھٹک۔ ک۔ ٹا۔ ای [اس۔ ۱۰۔ مندر]
ایک خاردار لونی

بھٹکنا (بھٹکنا۔ ٹکنا) [۱۵۔ ۱۰۔ مندر] گمراہ ہونا۔ راہ بھولنا (۲۱) آواز پھرنا
(۳۱) کسی کو ڈھونڈنے پھرنا (۳۱) [۱۵۔ ۱۰۔ مندر] عین اور بے قرار ہونا۔
بھٹنا (بھٹنا) [۱۵۔ ۱۰۔ مندر] کسی چیز پر زنگ یا میل کا چھاجنا
آلودہ ہونا۔

بھٹنا (بھٹنا) [۱۵۔ ۱۰۔ مندر] بھٹنا۔ آنا سا مانا ہونا۔ منقلب ہونا (۲)
پھوجو جاتا۔ پلید ہونا۔

بھٹنا گمرا (بھٹنا۔ گمرا) [۱۵۔ ۱۰۔ مندر] کا سٹھو کی ایک گوت کا نام
بھٹنی (بھٹنی) [۱۵۔ ۱۰۔ مندر] [اس۔ ۱۰۔ مندر] سر پستان (۲) ٹٹکھ
بھٹو (۵) مذابے دقوت۔ احمق۔

بھٹو (بھٹو) [۱۵۔ ۱۰۔ مندر] خشک زمین جو صرف موسم خزاں میں فصل
بھٹو (اس۔ ۱۵۔ ۱۰۔ مندر) ایک قسم کا غلہ۔

بھٹی (بھٹی) [۱۵۔ ۱۰۔ مندر] مدح سرائی [۲۱] بھٹا کا پیشہ [۳۱] گائی
بھٹی (بھٹی) [۱۵۔ ۱۰۔ مندر] لوہاروں کا آتشدان۔ بڑا چولھا۔
دھو بیوں کا آتشدان جس پر کپڑے رکھ کر انہیں بھپا دیتے

بھٹی میں (۳) کارخانہ شراب ام، راجپوتوں کی ایک گوت۔
بھٹی چرکھٹنا (مجاوردہ) (۱۱) بھٹی گرم کرنا (۲) کپڑوں یا کسی شے کو
صاف کرنے کے لیے اسے آگ پر پکانا۔

بھٹی دار (اسف) [۱۵۔ ۱۰۔ مندر] باہ فرٹس۔ منتراب بیچنے والا۔ کلال۔
بھٹیارا (بھٹی۔ یارا) [۱۵۔ ۱۰۔ مندر] (۱۱) روٹی پکانے والا۔ نانابانی (۲)
وہ شخص جو سرے چلاتا ہو اور مسافروں کی خدمت کرتا ہو۔

بھٹیاری (بھٹی۔ یار۔ پن) [۱۵۔ ۱۰۔ مندر] باورچی گری (۲) کیمین پن
بھٹیاریخانہ (بھٹی۔ یارخانہ) [۱۵۔ ۱۰۔ مندر] سمرائے

بھٹیاری (بھٹی۔ یار۔ پن) [۱۵۔ ۱۰۔ مندر] باورچی (۲) کیمین پن
بھٹیاری (بھٹی۔ یار۔ پن) [۱۵۔ ۱۰۔ مندر] مسافر کو سمرائے میں ٹھہرانے والی عورت۔
بھٹیاریوں کی سی لڑائی [ایش] [۱۵۔ ۱۰۔ مندر] [۲۱] معمولی بات پر بھٹی

بھج (اس۔ ۱۰۔ مندر) [۱۱] مثلث کا شعل (۲) بازو۔ کمنی سے اوپر کا حصہ۔

بھرا بیٹھنا (محاورہ) غصے میں ہونا ناراض ہونا۔ شکوہ شکایت کے لیے تیار ہونا۔ روٹنے کے قریب ہونا۔

بھرا لبر (۱)۔ صف آسودہ۔ فارغ البال (۲) صاحب اولاد (۳) صاحب مال خوش نصیب

بھرا جانا (محاورہ) (۱) پڑھ جانا (۲) آلودہ ہو جانا (۳) حاملہ ہو جانا۔
بھرا دینا (۱) لبریز کر دینا۔ مال مال کر دینا (۲) نقصان پورا کرنا (۳)
آسودہ کر دینا۔ (۴) لقمہ ٹھونکا (۵) ادا کرنا (۶) آبپاشی کرنا۔
بھرا گھر (۱) نڈا آباد گھر مال اور آدمیوں کی (افراط) (۲) اسباب خانہ داری
سجھنا ہوا مکان۔

بھرا گھر ہر پار ہونا (محاورہ) گھر کی رونق جاتی رہنا۔
بھرا وقت (۱) نڈا شام۔ جب دونوں وقت ملیں۔ (۲) [زق]
بھرا ہونا (محاورہ) (۱) آزرہ ہونا (۲) کثرت سے موجود ہونا (۳) پڑھنا۔
بھرے بھرے۔ تیار ہوئے تازے۔

بھرے بیٹھے ہیں بھرے ہوئے ہیں (محاورہ) انخفا ہیں۔ ناراض
ہیں (۲) شکوے سے پڑے ہیں (۳) روٹنے کو تیار ہیں۔
بھرے رہنا (محاورہ) (۱) لبریز رہنا (۲) جمع رہنا (۳) ناخوش رہنا
بھرے کو بھرا (محاورہ) ایسے شخص کے ساتھ حسن سلوک کرنا جس
کو اس کی حاجت نہ ہو۔ کھانے بیٹھے پر احسان کرنا۔

بھرا (بھر۔ را) (۱) نڈا (۲) (۱) تعجب۔ (۲) تحریک۔ (۳) بھریں (۴) دھوکا۔
بھرا (۳) کبوتروں کے یکبارگی اڑنے کی آواز۔
بھرا بھرا (۱) فالتو مد میں صرف کرنا (۲) رشوت دینا (۳) قرض ادا کرنا
کتاب باننا (۵) تنگ دستی سے گزار کرنا (۶) عمر پوری کرنا۔
بھرا دینا (محاورہ) ادم دینا۔ جھانسا دینا۔ (۲) کبوتروں کو یکبارگی اڑانا
بھرنے پر چڑھنا (محاورہ) (۱) بھانسنے میں لانا (۲) تعریف کرنے کسی
بات پر آمادہ کرنا۔

بھرتے ہیں آنا (محاورہ) دھوکا کھانا۔ فریب میں پھنسا۔
بھرا (بھرتا) (۱) [صف] نہایت کالا۔

بھرا (بھرتا) (۱) [صف] نہایت کالا۔
بھرا (بھرتا) (۱) [صف] نہایت کالا۔
بھرا (بھرتا) (۱) [صف] نہایت کالا۔

بھرا (بھرتا) (۱) [صف] نہایت کالا۔
بھرا (بھرتا) (۱) [صف] نہایت کالا۔
بھرا (بھرتا) (۱) [صف] نہایت کالا۔

بھرا (بھرتا) (۱) [صف] نہایت کالا۔
بھرا (بھرتا) (۱) [صف] نہایت کالا۔
بھرا (بھرتا) (۱) [صف] نہایت کالا۔

بھرا بھری (بھرتا) (۱) [صف] نہایت کالا۔
بھرا بھری (بھرتا) (۱) [صف] نہایت کالا۔

بھرا بھری (بھرتا) (۱) [صف] نہایت کالا۔
بھرا بھری (بھرتا) (۱) [صف] نہایت کالا۔

بھرتا (بھرتا) (۱) [صف] نہایت کالا۔
بھرتا (بھرتا) (۱) [صف] نہایت کالا۔

بھرتا (بھرتا) (۱) [صف] نہایت کالا۔
بھرتا (بھرتا) (۱) [صف] نہایت کالا۔

بھرتا (بھرتا) (۱) [صف] نہایت کالا۔
بھرتا (بھرتا) (۱) [صف] نہایت کالا۔

بھرتا (بھرتا) (۱) [صف] نہایت کالا۔
بھرتا (بھرتا) (۱) [صف] نہایت کالا۔

بھرتا (بھرتا) (۱) [صف] نہایت کالا۔
بھرتا (بھرتا) (۱) [صف] نہایت کالا۔

بھرتا (بھرتا) (۱) [صف] نہایت کالا۔
بھرتا (بھرتا) (۱) [صف] نہایت کالا۔

بھرتا (بھرتا) (۱) [صف] نہایت کالا۔
بھرتا (بھرتا) (۱) [صف] نہایت کالا۔

بھرتا (بھرتا) (۱) [صف] نہایت کالا۔
بھرتا (بھرتا) (۱) [صف] نہایت کالا۔

بھنکنا راجھن۔ کارا [ہ۔ مٹ] مکیوں یا مچروں کا ہجوم ۲۱ مکیوں یا مچروں کی آواز۔
 بھنکنا آجھن۔ کانا [ہ۔ مص] کسی چیز کو بے احتیاطی سے رکھنا کہ مکیاں اس پر بیٹھیں۔
 بھنکنا ابھنک۔ نانا [ہ۔ مص] ۱۱ مکیوں کا بھنکنا ۲۱ سست بیٹھنا بے کار رہنا ۳۱ میل پھیلا رہنا۔ غلیظ رہنا۔
 بھنگ [ہ۔ مٹ] ۱۱ بنگ۔ ایک قسم کی تشیلی پتی ۲۱ بربادی تباہی خاتمہ۔
 بھنگ تو نہیں کھائی (محاورہ) بدحواسی کی باتیں کرنے والے کی نسبت کہتے ہیں۔

بھنگ رہنا (محاورہ) سست رہنا۔ بدحواس رہنا۔ پریشان رہنا۔ بھنگ کرنا (محاورہ) خراب کرنا۔ بگاڑنا۔ ٹوڑنا۔ مسمار کرنا۔
 بھنگ کھانا (محاورہ) بدحواس ہونا۔ نشے میں ہونا۔
 بھنگ کے بھاڑے میں جانا (محاورہ) مفت جانا۔ ضائع ہونا۔
 بھنگا بھنگا گا [ہ۔ مذ] ایک چھوٹا سا کیرا۔
 بھنگا سا [ہ۔ صفت] ضعیف۔ لاغر۔ کمزور۔
 بھنگرا۔ بھنگرا [ہ۔ مذ] ایک گھاس جو دو آئیں میں کام آتی ہے۔

بھنگرا بھنگ۔ راج [ہ۔ مذ] ایک چھوٹا سا خوش آواز بوند بھنگرا بھنگ کر [ہ۔ مذ] ۱۱ بھنگ پیسنے والا ۲۱ پی۔ یا وہ گو۔ بھنگا بھنگا [ہ۔ مذ] ایک دیہاتی ناچ۔
 بھنگ پینے کا اڈا۔
 بھنگن ابھن۔ گن [ہ۔ مذ] ۱۱ بھنگ پینے ۲۱ بھنگ پینے والی ۲۱ اجترانی۔ خاکروب۔

بھنگی ابھن۔ گی [ہ۔ مذ] بھنگ پینے والا ۲۱ خاکروب۔ اجتر۔
 بھنگی ابھن۔ گی [ہ۔ مذ] ۱۱ بھنگ پینے والا ۲۱ اجتر۔
 بھنگیا جانا۔ بھنگنا جانا بھن گ۔ یا جانا۔ بھن گ۔ یا۔ نانا [ہ۔ مص] نشہ میں ہونا۔ بدحواس ہوجانا۔
 بھنگیرا بھنگ کے [ہ۔ مذ] بھنگ پینے والا۔ بھنگ بنانے والا۔
 بھنگیرخانہ ابھن۔ گیر۔ خانہ [ہ۔ مذ] ۱۱ بھنگ پینے والا۔
 بھنگیرخانے کی گب (محاورہ) بے سرو پات۔ بے بنیادگی۔
 بھنگیر بھن گے ٹون [ہ۔ مذ] ۲۱ بھنگ پلانے والی خاندانہ ۲۱ حق تیار کر کے پلانے والی۔

بھننا ابھن۔ نانا [ہ۔ مص] دیکھ بھننا۔
 بھنگ ابھن۔ ننگ [ہ۔ مٹ] [ہ۔ مٹ] دھبی دھبی آواز۔
 بھنورا بھن۔ ورا [ہ۔ مذ] ۱۱ بانی کا چکر۔ گرداب ۲۱ بلاغم۔ دیکھ بھنور پڑنا [ہ۔ مص] بانی کا چکر کھانا۔ گرداب پڑنا۔
 بھنور حال [ہ۔ مذ] دنیا کے بھٹے بھٹے بھنور علی [ہ۔ مٹ] الو سے وغیرہ کا حلقہ جو کہ یا بکری وغیرہ کے گلے میں ڈالتے ہیں۔ کڈٹی۔

بھنچ بھنجیا ابھنچ۔ بھن۔ نے جبا [ہ۔ مذ] ۱۱ بھن کا بیٹا بھانجا۔
 بھنچ بھو ۱۔ مٹ ابھانچے کی بیوی۔
 بھنچ داماد [ہ۔ مذ] ابھانچے کا خاوند۔
 بھو [ہ۔ مذ] ڈر۔ خوف۔ دہشت۔
 بھو [ہ۔ مٹ] بیٹی ۱۲ زمین۔ دھرتی۔
 بھو [ہ۔ مذ] خوف۔ ڈر۔ دہشت۔
 بھو [ہ۔ مٹ] [ہ۔ مذ] ۱۱ مٹ باب کی ہن۔ بھو بھو بھو بھو (نی۔ نی) [س۔ مٹ] [س۔ مٹ] [۱۱] اور گا۔ پارتی۔ شیوجی کی استری ۲۱ اچھیک۔

بھو بل بھو بل [ہ۔ مٹ] ۱۱ گرم راکھ ۲۱ رت خاک۔
 بھو پالی بھو پالی [ہ۔ مٹ] ۱۱ ایک راگنی کا نام ۲۱ [صفت] بھو بل سے نسبت رکھنے والا۔

بھوت [س۔ مذ] ۱۱ بھننا پرست۔ شہدیان۔ خبیث۔ ناپاک رُوح۔ ۲۱ [صفت] ابھننا چھوڑنے والا ۲۱ بد شکل ۳۱ نشے میں چور۔
 بھوت اتارنا (محاورہ) خبیث رُوح کو دفع کرنا ۲۱ غصے سے نجات دلانا۔
 بھوت اتارنا (محاورہ) خبیث رُوح کا دفع ہونا۔ غصہ دور ہونا۔
 بھوت بن کر چمکنا بھوت بن کر چمکنا۔ بڑی طرح دیکھے پڑنا۔ ہر وقت ساتھ رہنا۔ کسی بات کے سر ہوجانا۔

بھوت پٹنا [ہ۔ مذ] ۱۱ نشے میں سرشار ہونا ۲۱ غصے میں پے سے باہر ہونا ۳۱ خاک آلود ہونا ۴۱ جمر تن مصروف ہونا۔
 بھوت بن کر چمکنا (محاورہ) بڑی طرح دیکھے پڑنا۔
 بھوت پرست [ہ۔ مذ] خبیث رُوح بن۔
 بھوت پڑھنا (سوار ہونا) (محاورہ) سخت غصہ آنا۔
 بھوت کا چھوٹا ۱۱ بھوت کے ذریعے سے ملا ہوا پکوان ۲۱ مفت کی دولت۔ آسانی سے حاصل کیا ہوا مال۔

بھوت پنی۔ بھوتنی بھوت۔ نی [ہ۔ مذ] ۱۱ بھوت کی تائید۔ پڑیل پنی بھوتنی والا ۱۱ پڑیل کا۔ ایک گالی بدمعاش۔ بشر۔ بے ایمان۔
 بھوٹا بھوٹ۔ با [ہ۔ صفت] ۱۱ بھوتان کا رہنے والا ۲۱ ناٹے قد آدمی۔
 بھوٹ [س۔ مذ] ۱۱ کھانا ۲۱ دعوت۔ خیانت۔ بھنا ہوا غلہ۔
 بھوٹ بھوٹ۔ دخت کے پتے۔ قدیم زمانے میں انہیں بجائے کاغذ کے استعمال کرتے تھے۔
 بھوٹا بھوٹا بھوٹا [ہ۔ مذ] ۱۱ مٹ ۱۱ مٹ ۱۱ سے بھائی کی بیوی بھوٹ۔

بھوٹن بھوٹن [ہ۔ مذ] ۱۱ کھانا کھانے کی چیز ۲۱ ترکلی۔ بھٹی ہوئی ترکاری ۳۱ بھوٹنی ہوئی بھٹی۔
 بھوٹک۔ بھوٹک بھوٹک۔ بھوٹک کا [ہ۔ صفت] بدحواس پریشان حیران ممتو ۳۱ بھولا ہوا۔ غلط استہزا ہوا ۴۱ اورتا ہوا۔ خوف زدہ۔
 بھوٹک بھوٹا بھوٹا (محاورہ) حیران و متعجب ہونا۔
 بھوٹل بھوٹل [ہ۔ مذ] ۱۱ برک۔
 بھوٹل [ہ۔ مٹ] ۱۱ صبح۔ نور کا ٹوکا۔ علی الصبح ۲۱ خانہ۔

بھیتر ابھی۔ ترا [ہ۔ صف ۱۱] پوشیدہ۔ مخفی (۲) اندر۔ درمیان
 بھیتری (بھیت۔ ری) [ہ۔ صف ۱] داخلی۔ اندرونی۔ اندر کا۔
 بھیتری مارا۔ مٹا (۱) وہ مار جس کا نشان نظر نہ آئے۔ اندرونی چوٹ
 (۲) دلی صدر۔ جگر کی غم۔

بھیٹ (ہ۔ مٹ) [۱] مٹ بھٹ بھڑا (۲) ملاقات۔ میل (۳) پیشکش۔ سوغات۔ ڈالی۔ تحفہ۔ نذرانہ (۴) قربانی۔ صدقہ (۵) رشوت
 بھیت بکرا (۱) منت کا بکرا۔ نذر کا بکرا (۲) قربانی کی چیز۔
 بھیت چرٹھانا (محاورہ) [۱] نذرانہ دینا۔ چرٹھاوا دینا (۲) قربانی دینا
 (۳) رشوت دینا۔

بھیٹ لینا (محاورہ) اندر لینا۔ چرٹھاوا لینا (۲) رشوت لینا (۳) قربانی منظور کرنا
 بھیی (بھیجے جا) [ہ۔ مٹ] مغز۔ دماغ۔ گودا (۲) بھینا کا صیغہ ماضی
 بھینا لینا (محاورہ) کسی کی بک بک سے دماغ پریشان ہونا۔ نہایت
 درد سر ہونا۔

بھینا کھانا (محاورہ) باتیں کر کر کے کسی کا دماغ پریشان کرنا۔ وسیع ترانہ کرنا
 بھینا (بھیجنا) [ہ۔ مٹ] اروا نہ کرنا۔ جلتا کرنا۔ ارسال کرنا۔

بھینا (بھیننا) [ہ۔ مٹ] [۱] دبانا۔ مروڑنا۔ دوپٹنا (۲) کھلنا۔ مسلنا
 (۳) مجبور کرنا۔ بوجھ ڈالنا۔

بھید (ہ۔ مٹ) [۱] پوشیدہ بات۔ دلی بات۔ راز (۲) سراغ پتہ
 نشان (۳) پسیلی۔

بھید پانا (محاورہ) سراغ پانا۔ پتہ لگانا (۲) چھپی ہوئی بات سمجھ جانا۔
 بھید کھولنا (محاورہ) [۱] راز ظاہر کرنا۔ دل کی بات بتا دینا (۲) کھلم کھولنا
 بھید لینا (محاورہ) راز معلوم کرنا۔ عنذ یہ لینا۔ پتہ لگانا۔ چھان بین کرنا
 بھیدی (بھیجے دی) [ہ۔ صف ۱] [۱] ہم راز۔ بھید جاننے والا۔
 خرم راز (۲) کھوجی۔ سراغ رساں۔ مخبر۔ جاسوس۔

بھیروں (بھیروں) [ہ۔ مٹ] [۱] شہوچی کا اوتار (۲) چھ رازگوں
 میں سے ایک رازگ (۳) [مجازاً] کالا آدمی۔

بھیروں چرٹھنا (محاورہ) ادبوانوں کی سی باتیں کرنا۔
 بھیروں ناچنا (محاورہ) صحبت کا بدرمہ ہونا۔ رنگ میں بھنگ پڑنا
 (۲) اجازت ہونا۔ تباہ ویر باد ہو جانا۔ کام بخر جانا۔

بھیروں (بھیروں) [ہ۔ مٹ] [۱] بھیروں کی استری (۲) بھیروں
 کی پانچ رانہوں میں سے ایک رانہ جو قبح کے وقت کافی جاتی ہے۔

بھیروں (بھیروں) [ہ۔ مٹ] [۱] بھیدوں میں سے ایک رانہ جو قبح کے وقت کافی جاتی ہے۔
 بھیت گانا (۲) عیش منانا۔

بھیروں سے تو ہماری بھی [ہ۔ مٹ] [۱] اگر ہماری مرضی کی بات ہو
 رہی ہے تو ہم بھی تعریف کرتے ہیں۔ بالکل غافل اور انجان کے ہانے
 میں کہتے ہیں۔

بھیڑ (ہ۔ مٹ) [۱] انہوہ۔ بجوم۔ ازدحام (۲) مصیبت۔ آفت
 بھینا (ہ۔ مٹ) [۱] کثرت۔ نزادنی۔ بہنات (۲) دھوم دھام۔
 نشان و سوکت۔

بھیڑ بھڑکا (ہ۔ مٹ) بھیر بھڑا۔ دھوم دھام۔

بھیڑ پڑنا (محاورہ) [۱] آفت آنا۔ مصیبت آنا (۲) ہم پیش آنا (۳) وقت
 ضائع ہونا۔

بھیڑ چھٹنا (محاورہ) بجوم کا کم ہونا۔ جمع منتشر ہونا۔
 بھیڑ (ہ۔ مٹ) [۱] مینڈھے کی موٹھ۔ میٹھ۔ بھیری (۲) [مجازاً] [۱]
 سیدھا سادہ مسکین آدمی۔

بھیڑ پورا (کس نے پھوڑی) [مٹ] [۱] غریب کی چیز ہر کوئی سے جاتا
 ہے۔ غریب کو سب لوٹتے ہیں۔

بھیڑ جہاں جائے گی وہیں منڈھے گی (مٹ) [۱] غریب کو زور آدمی
 جہاں بھی جائے گا کمزوری رہے گا (۲) [۱] میر اور مالدار آدمی کو ہر
 جگہ کچھ خرچ ہی کرنا پڑتا ہے۔

بھیڑ چال (ہ۔ مٹ) [۱] ابے سوچے سمجھے، دیکھا دیکھی کام کرنا۔ رسم و رواج
 کے پیچھے اندھا دھند ہولینا۔

بھیڑ کی لات ٹخنوں تک [مٹ] [۱] کمزوری بہادری اور سختی سے بھی
 کسی کو تکلیف نہیں پہنچ سکتی۔ کمزور سے کسی کو نقصان نہیں پہنچتا

بھیڑ پڑنا (بھیڑنا) [ہ۔ مٹ] [۱] پڑنا۔ گانا۔ دروازہ بند کرنا (۲) قفل لگانا
 (۳) [ہ۔ مٹ] [۱] حوالہ کرنا۔

بھیڑنی (بھیڑنی) [ہ۔ مٹ] [۱] بھیریے کی مادہ۔
 بھیری (بھیجے۔ ری) [ہ۔ مٹ] [۱] بھیر۔

بھیڑیا (بھیجے۔ ری) [۱] [ہ۔ مٹ] [۱] ایک دزدے کا نام۔ گروگ۔
 بھیر پٹا کھائے نہ کھائے مندر لال (مٹ) [۱] انعام ہمیشہ بدنام کے
 بھیس کے سر آتا ہے خواہ وہ جرم کرے نہ کرے۔

بھیس (ہ۔ مٹ) [۱] رنگ روپ۔ وضع۔ طریق۔ طور (۲) لباس۔
 پوشاک۔

بھیس بدلنا [۱] روپ بھیرنا۔ سوانگ بھیرنا (۲) ہیئت پلٹنا (۳) لباس
 تبدیل کرنا۔

بھیک (ہ۔ مٹ) [۱] گدائی خیرات۔ سوال۔ بھیکنا۔
 بھیک کا کھڑا (۱) [ہ۔ مٹ] [۱] خیرات کا رقم۔ گدائی کی روٹی (۲) حرام کا
 بھیک بچھڑا۔ بھیک بھینا۔

بھیک کا بھیک (ہ۔ مٹ) [۱] بچھڑا۔ کاسٹ گدائی۔ مانگنے کا پیالہ (۲)
 گدائی کا وسیلہ (۳) کسب فن۔

بھیک کے لالوں کا مزہ پڑنا (محاورہ) مفت خوری کی عادت ہونا۔
 بھیک ہانک کر گھڑیا سنوار دینا (محاورہ) کسی نہ طرح مصیبت کھیل
 کر لڑکی کا چہرہ تیار کر لینا۔

بھیک مانگنا [۱] گدائی کرنا (۲) خیرات چاہنا۔ مفت مانگنا۔
 بھیکنا (بھیجے۔ گا) [ہ۔ صف ۱] [۱] بانی پڑا ہوا۔ کیلا۔ تر۔

بھیکنا (بھیکنا) [ہ۔ مٹ] [۱] کیلا ہونا۔ تر ہونا۔ تم دار ہونا (۲) رات
 کا نصف سے زیادہ حصہ گزرنے (۳) رات عیش میں گھٹنا۔ آواز میں
 سوز پید ہونا۔

بھیکنا (بھیجے۔ گی) [ہ۔ صف ۱] بھیک کی نائیت۔ گیسی۔ تر۔
 بھیکنی (بھیجے۔ گی) [ہ۔ مٹ] [۱] اگر بر مسکین۔ ذریعہ۔ عاجز۔ بے وقعت۔

بھیکنی (بھیجے۔ گی) [ہ۔ مٹ] [۱] اگر بر مسکین۔ ذریعہ۔ عاجز۔ بے وقعت۔

بھیکنی (بھیجے۔ گی) [ہ۔ مٹ] [۱] اگر بر مسکین۔ ذریعہ۔ عاجز۔ بے وقعت۔

بھیکنی (بھیجے۔ گی) [ہ۔ مٹ] [۱] اگر بر مسکین۔ ذریعہ۔ عاجز۔ بے وقعت۔

ب۔ بی۔ ی

بی۔ ا۔ ۱۔ مٹ ۱۱۱ بی بی کا مخفف۔ کلمہ خطاب ہے جو عورتوں سے مخاطب ہوتے وقت کہتے ہیں ۱۲۱ بیوی۔ بیگم۔ رانی۔
بی۔ اے ۱ (Bachelor of Arts) (انگ۔ صف) کا مخفف
شعبہ فنون کی پہلی ڈگری۔ جو عورتوں جماعت پاس۔
بی۔ ایس۔ سی (Bachelor of Science) سائنس کی پہلی ڈگری۔

بی بی بنتو ۱۱۔ کلمہ خطاب عورتوں کو خطاب کرنے کا ایک خطاب۔
بی بی ۱۱۔ مٹ ۱۱۱ بیگم۔ خاتم۔ خاتون (۲) امیرزادی۔ شریف زادی (۳) گھروالی۔ صاحب خانہ (۴) صف آئیک۔ باگ۔ عقیقہ۔ پارسا۔ عورت (۵) حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا لقب۔
بی بی خطاب کرے باندی پکڑی جائے (۱) مٹ ۱۱۱ بی بی کی خطا پر چھوٹے کی کم بختی۔ اپنی خطا کو نوکر یا خادم کے سر چھوڑنا۔
بی بی خٹلا دو بیٹے اک میلا (۱) مٹ ۱۱۱ چھوٹے کو موزویت کی کچھ پروا نہیں ہوتی۔

بی بی کا جھاڑو پھیرے ابد دعا مرے۔ تباہ ہو۔ بر باد ہو۔
بی بی کا دانہ ۱۱۔ مٹ ۱۱۱ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی نیاز کا کھانا
بی بی کا کوٹڑا ۱۱۔ مٹ ۱۱۱ جلیبیاں جن پر حضرت فاطمہ کی نیاز ہوتی ہے
بی بی کا کھانا دانہ کھانے والی (مقولہ) باگ دامن یا پارسا عورت جو حضرت فاطمہ کی نیاز کا کھانا کھانے کی اہلیت رکھتی ہو۔
بی بی کی بڑیا ۱۱۔ مٹ ۱۱۱ وہ مٹھائی جو حضرت فاطمہ کی نیاز کے واسطے پڑھائیں منگاتے ہیں۔

بی بی صحتک ۱۱۔ مٹ ۱۱۱ حضرت فاطمہ کی نیاز کا کھانا جو مٹی کی کوری رکائی میں ڈال کر کھلایا جائے۔
بی بی کی گھڑیا ۱۱۔ مٹ ۱۱۱ [مجازاً] گھری۔
بی بی کی نیاز ۱۱۔ مٹ ۱۱۱ حضرت فاطمہ کی نیاز کا کھانا جو صرف بالذہن عورتیں کھاتی ہیں۔

بی بی داسے باندی کھلے، گھر کی بلا گھر میں جائے (۱) مٹ ۱۱۱
دیانہ دیا بولہ ہوا، خدا کی راہ میں دی جانے والی چیز اپنے عزیزوں ہی کو کھلا دینے کے موقع پر کہتے ہیں۔
بی۔ جی ۱۱۔ بیوی جی کا مخفف (۲) مذاقاً [زنانہ مزاج رکھنے والا مرد بی۔ دوشی اندر ہی اندر کھولتی (مثل) حسد سے اندر اندر جلتے والی کو کہتے ہیں۔
بی دیا سلاقی بیج کو گئی شام کو آئی (مثل) بہت غیر حاضر رہنے

والی کی نسبت کہتے ہیں۔
بی شادی ۱۱۔ مٹ ۱۱۱ ایک فرضی نام جو عورتوں نے بچوں کو ڈانے کے پیسے بخور کر رکھا ہے۔
بے ۱۱۔ حرف نداد مخاطب۔ اے کا مخفف۔

بھگی ملی بنانا (مخادرہ) یہاں کرنا۔ طالنا۔ ٹا مٹل کرنا۔
بھگی رات (۱) مٹ ۱۱۱ آدھی رات گزر جانے کے بعد رات کا باقی حصہ
بھگی مرغی (۱) مٹ ۱۱۱ اجازت نہایت غریب۔ مسکین صورت
بھگی مسیں ۱۱۔ مٹ ۱۱۱ سبز آغاز۔ مچھوں کے روئیں کے بال جو شروع میں نکلتے ہیں۔ جوانی کا آغاز۔
بھگی (۱) مٹ ۱۱۱ ہندوستان کی ایک قدیم نسل کے لوگ جو اچھوتانہ کے علاقے میں پائے جاتے ہیں۔
بھگی (۱) مٹ ۱۱۱ [مٹ ۱۱۱] گڑھا گڑھا گول ڈلا جس کا وزن تین چار سیر کا ہوتا ہے۔

بھگی (۱) مٹ ۱۱۱ [مٹ ۱۱۱] منہ۔ بکھڑا
بھگی (۱) مٹ ۱۱۱ [مٹ ۱۱۱] ہندی بچے کا بڑی طرح منہ بنا کر زور سے دینا
بھگی (۱) مٹ ۱۱۱ [مٹ ۱۱۱] بھگے کو لٹنے کی آواز
بھگنا (بھی) نا (۱) مٹ ۱۱۱ [مٹ ۱۱۱] ہلکا سبک۔ لطیف۔
بھگینٹ (۱) مٹ ۱۱۱ [مٹ ۱۱۱] بھگے۔ بھگیت۔
بھگینٹ پوڑھانا۔ قربانی دینا۔ نذر دینا۔
بھگینٹا (بھگینٹ) نا (۱) مٹ ۱۱۱ [مٹ ۱۱۱] چھو اجانا (۲) اندر دینا۔ تحفہ پیش کرنا۔
بھگینٹا (بھگینٹ) نا (۱) مٹ ۱۱۱ [مٹ ۱۱۱] دانا سبک دانا (۲) کچلنا مسلنا (۳) انگلیوں یا دانتوں کا زور سے بند کر لینا (۴) مجبور کرنا (۵) زور کے ساتھ سینے سے لگا لینا۔

بھگینس ۱۱۔ مٹ ۱۱۱ [مٹ ۱۱۱] گاؤ پیش۔ بھگینس کی مادہ (۲) [مجازاً] موٹی عورت
بھگینس کے آگے بین بجائے بھگینس کھڑی پگڑی اٹھائے (مثل) بوجوت
شخص کے سلتے ہنر دکھانے سے وہ ہنر کی کوئی قدر نہیں کرے گا۔ (مٹ) کے آگے دانائی کی باتیں کرنا فضول ہیں۔
بھگینسا (بھگین) سا (۱) مٹ ۱۱۱ [مٹ ۱۱۱] بھگینس کا تر (۲) [مجازاً] بہت موٹا آدمی
بھگینسا داو۔ ایک قسم کا بڑا اور سخت داو جو فساد خون سے ہوتا ہے
بھگینسا گول۔ ایک قسم کا گوند جو داؤں میں ڈالا جاتا ہے۔
بھگینسا لسن۔ ایک بڑا نشان جو اکثر کال یا گردن وغیرہ کی جلد پر پڑ جاتا ہے۔
بھگینگا (بھگین) گا (۱) مٹ ۱۱۱ [مٹ ۱۱۱] دیکھ دیکھنے والا (۲) ایک کو دو دیکھنے والا (۳) تحول۔

بھگینگی (بھگین) گی (۱) مٹ ۱۱۱ [مٹ ۱۱۱] بھگینگی کی تائیت
بھگینی (بھی) بی (۱) مٹ ۱۱۱ [مٹ ۱۱۱] مدغم۔ نرم۔ لطیف۔
بھگینی بھگینی لو۔ (۱) مٹ ۱۱۱ [مٹ ۱۱۱] بھگینوں کی ہلکی ہلکی خوشبو۔ تازہ پھولوں کی
بھگینی بو۔ لطیف بو۔
بھگینی بھگینی روشنی (۱) مٹ ۱۱۱ [مٹ ۱۱۱] ہلکی روشنی۔ مدغم روشنی جو تیز نہ ہو دھیمی سی روشنی۔

(۴) شوخ۔ مسخر (۶) بے ادب (۷) آوارہ۔ بے پروا۔
 بے باکانہ۔ بے باکی سے۔ شوخی سے۔
 بے باکی۔ دف۔ مٹا۔ شوخی۔ شرارت۔ بے حیائی۔
 بے بال و پر (۱) صف (۱۱) بے یار و مددگار جس کا کوئی رفیق
 نہ ہو۔ تنہا۔ اکیلا۔ بے سہارا (۲) مفلس۔ عاجز۔ مجبور (۳) کمزور۔
 ناقص (۴) جس کے بازو اور پر نہ ہو۔ لٹمنڈ (بال بمعنی بانغا
 بے بدل (۱) صف (۲) الاثنانی۔ بے نظیر جس کی مثال نہ ہو۔
 بے برگ (۱) صف (۲) پتوں کے بغیر (مجازاً) محتاج بے نوا۔
 بے برگ و نوا (۱) صف (۲) عاجز۔ بے سروسامان۔
 بے بس (۱) ناچار۔ مجبور۔ عاجز۔ ناتواں۔ ضعیف (۲) بے قابو
 بے اختیار (۳) منقید۔ مجبوس۔
 بے بسی (۱) مٹا (بے کسی بے اختیار)۔
 بے بصیرت (۱) ع۔ صف (۲) انا۔ رھا۔ نابینا (۲) نادان۔
 بے بلائے خدا کے گھر بھی نہیں جاتے۔ (مثلاً) بے طلب کوئی
 کہیں نہیں جاتا۔ اپنی کے نیازی ظاہر کرنے کو کہتے ہیں۔
 بے بہا (۱) صف (۲) بیش قیمت۔ اموال بے اندازہ قیمت
 والی چیز۔ بہت زیادہ قیمت کی شے (۲) نایاب۔ کم یاب (۳) نفیس
 عمدہ۔ عجیب و غریب۔
 بے بھاد (۱) پرتنا (مجاورہ) (۱) بہت ماہ پرتنا (۲) بہت زیادہ جرات
 بے بہرہ (۱) صف (۲) محروم۔ بے نصیب (۲) آوارہ۔ خراب۔ خسرت
 (۳) بد تمیز۔ گستاخ۔ بے ادب۔
 بے بہرہ پھرنا (مجاورہ) آوارہ پھرنا۔ خراب و خسرت پھرنا۔
 بے بہرہ ہونا (مجاورہ) (۱) بد تمیز ہونا۔ خود مختار و آزاد ہونا۔ (۲)
 بے خبر ہونا۔
 بے پایاں (۱) صف (۲) بے حد بے انتہا۔ بے اندازہ۔ بیکراں۔
 بے پروا (۱) صف (۲) لٹمنڈ۔ پتہ بریدہ۔ کٹے پروں والا (۲)
 بے بس۔ غریب۔ مفلس۔ بے سروسامان (۳) کمزور۔ ناتواں (۴) مجبور
 ناچار۔ محتاج۔
 بے پروا (۱) صف (۲) بے شرمی۔ بے لحاظی (۲) بے حیائی (۳) بھید کا
 اظہار۔ افشائے راز۔
 بے پردہ (۱) صف (۲) بے پردے کے بغیر بغیر برقع (۲) کھلم کھلا
 بے پردگی (۱) اڑانا (مجاورہ) غلط اور بے معنی بات کہنا۔ گپ اڑانا۔
 بے بنیاد خبر مشہور کرنا۔
 بے پروا (۱) صف (۲) غافل۔ بے فکر۔ مستغنی (۲) دولت مند (۳)
 مستحکم۔ کامل توجہ نہ کرنے والا۔ دھیان نہ لینے والا (۵) بے غرض متوجہ
 بے پروائی (۱) صف (۲) مٹا (بے فکری۔ آزادی۔ غفلت۔
 بے پروائی (۱) صف (۲) مٹا (بے اجازت۔

بے [۵] حرف نفی۔ بغیر بن۔ سوا۔
 بے آب (۱) صف (۲) پانی کے بغیر (۲) بے رونق۔
 بے آبرو (۱) صف (۲) بے حیاء بے عزت۔
 بے آبروئی (۱) صف (۲) بے عزتی۔ بے حیائی۔
 بے آبرنگ (۱) صف (۲) بے رونق۔
 بے آرامی (۱) صف (۲) مٹا (بے چینی۔ ڈکھ۔ تکلیف۔
 بے آزار (۱) صف (۲) بے ضرر۔ جس سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔
 بے آس (۱) صف (۲) مٹا (میلوس۔ نا امید۔
 بے اثر (۱) صف (۲) جس کا اثر نہ ہو۔ بے کار۔ بے فائدہ
 بے اجل (۱) صف (۲) قبل از موت مار دینا۔ بے موت ہلاک کرنا۔
 بے احتیاط (۱) صف (۲) جو احتیاط نہ کرے۔ غیر محتاط۔
 بے احتیاطی۔ احتیاط نہ کرنا۔ بجا و نکرنا۔
 بے اختیار (۱) صف (۲) بے قابو، بے بس۔ مجبور۔ ناچار (۲) بہت
 زیادہ (۳) خود بخود۔
 بے اختیار (۱) صف (۲) بے چارگی۔ کمزوری۔
 بے ادب (۱) صف (۲) گستاخ۔ شوخ۔ شریر۔ (۲) ناخوشگوار۔ غیر مہذب
 بے ادب بے نصیب، بالادب بال نصیب [مثلاً] جو ادب
 نہ کرے وہ بے نصیب رہتا ہے اور جو بزرگوں کا ادب کرے وہ خوش
 قسمت ہوتا ہے۔
 بے ادبی (۱) صف (۲) بے عزتی۔ گستاخی۔ بے نمیزی۔ شوخی و شرارت
 بے اشتہار (۱) صف (۲) بے شک۔ یقینی۔
 بے اصل (۱) صف (۲) بے بنیاد۔ بے ٹھکانے (۲) خلاف غلط
 بے حقیقت جس میں سچائی نہ ہو۔
 بے اعتبار (۱) صف (۲) جس پر اعتبار نہ ہو۔ ناقابل اعتبار۔
 بے اعتباری (۱) صف (۲) مٹا (۱) حد سے بڑھنا۔ بد پرہیزی (۲) نا انصافی
 (۳) غیر معتدل۔
 بے اعتدالی (۱) صف (۲) مٹا (بے پروائی۔
 بے اعتبار (۱) صف (۲) تمیز کیے بغیر (۲) بد تمیز۔ بے ادب۔
 بے انتہا (۱) صف (۲) بے اندازہ۔ بے حد۔
 بے اندازہ (۱) صف (۲) بے حد (۲) بے قیاس بے لٹکل۔
 بے اولاد (۱) صف (۲) بے اولاد جس کے بال بچہ نہ ہو۔
 بے ایمان (۱) صف (۲) بے دین (۲) بد اعتقاد (۳) بد نیت (۴)
 بد خیانت (۵) دغا باز۔ فریبی۔ مکار (۶) بھوٹا۔ دروغ گو (۷) غیر منصف
 بے ایمانی (۱) صف (۲) مٹا (بے دینی۔ بد دیانتی۔ بد نیتی (۳) دغا بازی
 (۴) فریب۔ مکر۔ دروغ (۵) بے انصافی۔
 بے باق۔ رکھ باقی نہ ہونا۔ قرض سے سبکدوش۔
 بے باقی کرنا (۱) حساب صاف کرنا (۲) ادا کرنا۔ چکانا۔ نٹنٹا۔ بھگتانا
 (۳) ختم کرنا۔ پورا کرنا (۴) سبکدوش ہونا یا کرنا (۵) فیصلہ کرنا۔
 بے باک (۱) صف (۲) بے خوف۔ نڈر (۲) آزاد (۳) دلیر بہادر

نہ ہو۔ ۱۳۱) بے ایمان۔ لاندہ مب۔ ہذا اعتقاد ۱۳۱) بے دماغ بے رحم (۵) سنگ دل (۶) بد ذات۔ بشریہ ۱۴) بے ہنر۔ بے کمال
 بے پندری کا بدھنا ۱۱) صف ۱۱۱) وہ بدھنا جس میں پندیری نہ ہو (۱۲) [مجازاً] مختلف ایقین۔ و طھلل یقین۔ غیر مستقل مزاج۔
 بے تاب (۱) صف ۱۱) بے طاقت۔ ناتواں۔ کمزور (۲) بے چین۔ مضطرب۔ بے قرار (۳) برداشت نہ کرنے والا۔
 بے تابا نہ (۱) گھبرایا ہوا (۲) ملا تامل۔ فوراً۔ بہت جلد۔
 بے تابی (۱) صف ۱) بے چینی۔ گھبراہٹ (۲) جلدی۔ شتابی۔
 بے تائید (۱) صف ۱) بے اثر (۲) بے فیض۔ بے فائدہ۔
 بے تالا (۱) صف ۱) وہ شخص جو کلمے میں نال سے باہر ہو جائے۔
 بے تامل (۱) صف ۱) بے اندیشہ۔ بے دھڑک۔ بے فکر۔
 بے تحاشا (۱) بے حواس۔ بے اطمینانی سے (۲) اندھا دھند۔ بے دھوک۔ مضطربانہ (۳) بے حد۔ بہت زیادہ۔
 بے تدبیر (۱) صف ۱) بے اندیشہ۔ بے پیرا۔ بے سوچے سمجھے۔
 بے ترتیب (۱) صف ۱) گڈ بڈ بے سلسلہ۔ بے قاعدہ۔
 بے تردد (۱) صف ۱) بغیر فکر اور اندیشے کے (۲) وہ زمین جس میں کاشت نہ کی گئی ہو۔
 بے ترکیب (۱) صف ۱) بے اندازہ۔ بے جوڑ بے تعلق۔ عیلمہ۔
 بے تصدق (۱) صف ۱) بے محنت۔ بلا تکلف۔
 بے تعلق (۱) صف ۱) کنارہ کش۔ عیلمہ۔
 بے تعلق۔ بلا تامل۔ بلا توقف۔
 بے تقصیر (۱) صف ۱) بے قصور۔ بے خطا۔ بے گناہ (۲) بے جرم (۳) ناحق کہے وجہ۔
 بے نیک (۱) صف ۱) ناموزوں۔ بے جوڑ۔
 بے نیکان (۱) صف ۱) آسانی سے۔ بے تکلف (۲) بے حد۔
 بے تکلف (۱) صف ۱) بناوٹ کے بغیر۔ قدرتی (۲) بے تامل۔ بے دھڑک۔ بے ساختہ (۳) بے اندیشہ (۴) بے حجاب۔ آزادانہ۔
 (۵) سیدھا سادا (۶) راز دار۔ مخمراز۔
 بے تکلفی (۱) صف ۱) بے حجابی۔ مخمراز ہونا۔ ہم رنگی۔ آزادی۔
 بے تکی ۱) صف ۱) بے موقع۔ بے محل۔ بے جوڑ۔ بے ڈھنگی۔
 بے تکرر (۱) صف ۱) بے ادب۔ بے لحاظ (۲) جاہل۔ نامہذب۔
 نالائق (۳) بچان نہ رکھنے والا۔ فرق نہ کرنے والا۔
 بے توجہ (۱) صف ۱) بے فکر۔ بے پروا۔ غافل جس کا دھیان دوسری طرف ہو۔
 بے توفیق (۱) صف ۱) کم حوصلہ۔ پست ہمت۔
 بے تھانک چوری نہیں ہوتی (مفوزاً) سازش کے بغیر چوری نہیں ہوتی۔
 بے تھما (۱) صف ۱) نہایت گہرا (۲) بے پایاں جس کے نیچے زمین نہ ہو۔
 بے ٹھیکٹ (۱) صف ۱) ٹھیکٹ لیے بغیر (۲) سرنگ خط۔

بے ٹھکانہ ۱) صف ۱) بے موقع۔ بے قرینہ۔ بے جا (۲) بے اصل۔ بے بنیاد (۳) وہ شخص جس کا گھربا نہ ہو۔
 بے ٹھوڑھکانے (۱) صف ۱) آوارہ گرد۔ بے گھر۔
 بے ثبات (۱) صف ۱) ناپائیدار۔ بودا۔ کمزور۔ متزلزل۔
 بے جا (۱) صف ۱) بے موقع۔ بے وقت۔ بے محل (۲) نامناسب۔ نانسباً۔ فضول۔ ناجائز۔ بے کار (۳) ناحق۔ بلا سبب۔
 بے جا بات (۱) صف ۱) نامناسب بات۔ بے موقع بات۔
 بے جا صرف کرنا۔ فضول خرچ کرنا۔ بے موقع روپیہ لٹانا۔
 بے جان (۱) صف ۱) مردہ۔ مراد ہوا (۲) مرہبایا ہوا۔ پڑھو (۳) نحیف۔ ضعیف۔ کمزور (۴) اگلا ہوا۔ بوسیدہ (۵) جمادات۔
 بے جانے بوجھے (۱) بغیر شناسائی اور بغیر واقفیت کے۔ (۲) بے سوچے سمجھے۔
 بے جرم (۱) صف ۱) بے گناہ۔ بے خطا۔ بغیر قصور کے۔
 بے جگر (۱) صف ۱) بے پروا۔ بہادر۔ دلیر۔
 بے جگری (۱) صف ۱) بے پروائی۔ بہادری۔ دلیری۔
 بے جوڑ (۱) صف ۱) خراب۔ غیر موزوں۔ نامناسب۔ بے میل۔ نادرست (۲) وہ برتن یا ہتھیار جس میں جوڑ نہ لگا ہوا (۳) جس کے مقابلے کا کوئی نہ ہو۔
 لاتانی۔
 بے جہت (۱) صف ۱) بے سبب۔ بلا وجہ۔
 بے چارہ (۱) صف ۱) بے بس۔ مجبور۔ عاجز (۲) غریب۔ مفلس۔
 نادار (۳) علاج (۴) بد بخت۔ بد نصیب۔
 بے چراغ (۱) صف ۱) مجازاً اوران خراب۔ برباد۔ تباہ۔ غیر آباد۔
 بے چگونگی (۱) صف ۱) وہ جس کی صفات تک عقل کی ساتھی نہ ہو (۲) جو خدائے تعالیٰ سے بے مشل۔
 بے چہرہ (۱) صف ۱) وہ خیمہ جس میں چہرہ نہیں لگائی جاتی۔ بغیر چہرے کے شامیانہ (۲) (مجازاً) آسمان۔
 بے چوں (۱) صف ۱) بے مثل۔ بے نظیر۔ (مجازاً) اللہ تعالیٰ۔
 بے چوں و پیرا (۱) صف ۱) کسی عذر کے بغیر بے دلیل۔
 بے چھری حلال کرنا (مجاورہ) بے حد ظلم و ستم دکھانا۔
 بے چین (۱) صف ۱) بے قرار۔ بے آرام۔ بے کل۔
 بے چینی (۱) صف ۱) بے قراری۔ بے آرامی۔ پریشانی۔ بے کلی۔
 بے حاصل (۱) صف ۱) بے فائدہ۔ لاقاصل۔
 بے حال (۱) صف ۱) خراب۔ نحتہ (۲) قریب مرگ (۳) ماندہ۔
 ضعیف۔ بیمار (۴) کمزور۔ دُبلّا۔ نحیف (۵) مفلس۔
 بے حجاب (۱) صف ۱) بے پردہ۔ بے آڑ (۲) بے شرم۔ بے لحاظ۔ (۳) بے تکلف۔
 بے حجابانہ (۱) بے تکلف۔ بے جھجک۔ بے روک ٹوک۔
 بے حد (۱) صف ۱) بے انتہا۔ بے شمار۔ بے اندازہ۔ بے حساب۔ بہت زیادہ۔
 بے حرکت (۱) صف ۱) نہ ہلنے والا۔ ساکن۔ قائم۔

بے حرمتی - ان صف اولیٰ بے عزت۔
 بے حرمت کرنا (محاورہ) (۱) عزت اتارنا۔ ذلیل کرنا۔ سوا کرنا۔ (۲) عصمت ہدیٰ کرنا۔
 بے حرمتی (ان صف اولیٰ) بے عزتی۔ ذلت بخواری (۲) عصمت نبوی۔
 نے جس (ان صف اولیٰ) جو حرکت نہ کر سکے جس کو تیز یا احساس بانی نے
 نے جس (ان صف اولیٰ) غیر متحرک۔ بے حرکت۔ ساکن۔
 (۲) حیران۔ ششدر۔
 بے حساب (ان صف اولیٰ) شمار۔ لا تعداد بے انتہا۔
 بے حقیقت (ان صف اولیٰ) اصل۔ ذلیل بے وقعت۔ ناچیز
 بے حکمت (ان صف اولیٰ) تیز بے عقل (۲) نادان۔ اناری۔
 نے حکم تینا نہیں ہلتا (مقولہ) خدا کی مرضی کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا۔
 نے حلاوت (ان صف اولیٰ) مزہ بے لطف۔
 بے حقیقت (ان صف اولیٰ) شرم۔ بے غیرت (محاورہ) بے مردت۔
 بے حواس (ان صف اولیٰ) حواس۔ بے اداس۔ بے خود۔ آپے سے
 باہر یا کل۔ دیوانہ۔
 بے حواس ہونا (محاورہ) پریشان ہونا۔ حواس کا درست نہ رہنا۔
 پاگل ہونا۔
 بے حوصلہ (ان صف اولیٰ) بغیر دہری کے (۲) کینہ۔ ذلیل (۳) پست
 اہمیت۔ مردہ دل (۲) بغیر تاقا بیت کے۔
 بے جہان (ان صف اولیٰ) بے شرم۔ بے غیرت (۲) بے ادب۔ گناہ بدگنا
 (۳) بدکار۔ بدچلن۔
 بے حیائی (۲) بدگنا (۱) بے حیائی کی کچھ پروا نہیں ہوتی ہر جگہ
 جس طرح بوسہ کتا بے کام نکال لیتا ہے۔
 بے حیائی (ان صف اولیٰ) بے شرمی۔ بے غیرتی۔
 بے حیائی کا بے رقع منہ پر لینا۔ بے حیائی کا جامہ پہننا (محاورہ) بے شرمی
 کا نقاب چہرے پر ڈالنا (۱) بہت ڈھیٹے اور بے جیا ہو جانا۔
 بے خیار (ان صف اولیٰ) کانٹوں کے بغیر (۲) بے خوف (۳) فوجیان۔ فوجیان۔
 وہ لڑکا جس کے ڈاڑھی نہ نکلی ہو۔
 بے خانماں (ان صف اولیٰ) بے گھر بے وطن۔ بے ٹھکانے۔
 بے خیران (ان صف اولیٰ) غافل۔ بے ہوش (۲) نا سمجھ بے وقوف جہاں
 ان جان بلا علم۔
 بے خبری (ان صف اولیٰ) غفلت بے ہوشی (۲) نا سمجھی۔ جہالت۔
 بے خرد (ان صف اولیٰ) نا سمجھ۔ بے وقوف۔ بے عقل۔
 بے خطا (ان صف اولیٰ) بے گناہ۔ بے قصور۔ معصوم۔
 بے خط۔ نڈر۔ بے خوف۔ محفوظ۔ مطمئن۔
 بے خلش (ان صف اولیٰ) بغیر تشویش۔ بغیر فکر۔ اندیشہ۔
 بے خواب (ان صف اولیٰ) بیدار۔ بے آرام۔ بے نیند کے۔
 بے خوابی۔ نیند نہ آنا۔
 بے خود (ان صف اولیٰ) آپ سے بے خبر۔ از خود رفتہ۔ مدہوش۔ ہرشار
 بے خودی (۱) بے ہوشی۔ از خود رفتگی۔ (۲) سرشاری۔ مستی۔

بے غور و خواب (ان صف اولیٰ) بغیر کھانے اور سونے کے (۲)
 (۳) مجازاً آرام کے بغیر۔ بے قرار۔
 بے خوف (ان صف اولیٰ) پروا۔ نڈر۔ دلیر۔
 بے خیال (ان صف اولیٰ) جس کا خیال ایک طرف نہ رہے۔ بے خیال بے پروا
 نے داد (ان صف اولیٰ) ظلم و ستم کے انصافی (داد بمعنی انصاف)
 کے داد کر (ان صف اولیٰ) ظلم۔ بے انصاف
 نے داد گری (ان صف اولیٰ) مٹا۔ ظلم کے انصافی۔
 بیدار (ان صف اولیٰ) بے جاگانا ہوا۔ جاگنے والا۔
 بیدار باش (ان صف اولیٰ) کھرا جاگتے رہو۔ جو کبیداروں آواز۔
 بیدار بخت (ان صف اولیٰ) خوش نصیب۔ صاحب اقبال۔
 بیدار مغز (ان صف اولیٰ) عالی دماغ۔ ہوشیار۔
 بے داغ (ان صف اولیٰ) بے عیب۔ بے گناہ بے قصور (۲) بے نشان
 بے دال کا بودم (محاورہ) اُلو بودم کی دال دور کرنے سے بودم بنتا
 ہے (۲) بے وقوف۔ احمق۔
 بے دام (ان صف اولیٰ) بے قیمت۔ مفت۔
 بے دام کا غلام (۱) بے مفت کا نوکر۔ فرماں بردار۔ بے مطیع۔
 بے دانش (ان صف اولیٰ) بے عقل، جاہل بے علم۔ بے وقوف۔
 کے دانہ (ان صف اولیٰ) وہ پھیل جس میں بیج نہ ہو (۲) ایک قسم کا انار
 نے دخل (ان صف اولیٰ) خارج۔ محروم۔ غیر تاقا۔
 نے دخل کرنا۔ خارج کرنا۔ قبضہ پٹانا۔ اکٹ کرنا۔ نکالنا۔
 بے دخلی (ان صف اولیٰ) خارج کرنا۔ محرومی۔ اخراج۔
 بے درو (۱) بے رحم۔ سنگ دل (۲) بے رحم (۲) معشوق۔
 بے درد قضائی کیا جائے بے رحمی کی مثل ان ظالم دوسرے کے
 دکھ درد کو نہیں محسوس کرتا۔ ظالم کو مظلوم پر رحم نہیں آتا۔
 بے دردی (ان صف اولیٰ) مٹا۔ ظلم۔ بے رحمی۔ سنگ دلی۔
 بے دردی سے مارنا۔ بے رحمی سے مارنا۔ بہت مارنا۔
 بے دریاں (ان صف اولیٰ) جس کا کوئی علاج نہ ہو۔ لا علاج۔ نا امید
 بے درنگ (ان صف اولیٰ) درنگ بے بغیر فوراً (۲) تیز چلاک۔
 بے دریغ (ان صف اولیٰ) بغیر رنج اور افسوس کے (۲) بے سنج بچار
 بلا توقف۔ بلا تامل (۳) فیاض۔ سخی (۴) کثرت سے۔ افراط سے۔
 بے دست و پا (ان صف اولیٰ) ہاتھ پاؤں بغیر۔ لٹکا۔ پانچ۔ ٹوکنا۔
 لنگڑا (۲) عاجز۔ مجبور۔ لاچار۔
 بے دستور (ان صف اولیٰ) بے قاعدہ۔ رواج کے خلاف۔ خلاف قانون
 بے دل (ان صف اولیٰ) بے جذبہ۔ اداس۔ معمو (۲) اجارٹ۔ اندرہ
 وکبیر۔ بے نفس۔ تارک الدنیا (۲) دل برداشتہ (۵) نڈر۔
 بہادر۔ سورما۔ بے جگر۔
 بے دم (ان صف اولیٰ) بے جان۔ مردہ۔ کمزور۔ بودا (۳) پرانا۔ کہنہ۔
 بوسیدہ (۲) کھنکا نامہ (۵) کسست۔ کاہل۔
 بے دماغ (ان صف اولیٰ) نازک مزاج۔ زود رنج۔ ناخوش۔
 بے دودھ کا لڑکا رکھنا (محاورہ) جیلے حوالے کرنا۔ مثال مثول کرنا

بے رونق ۱۱۔ صفت اے لطف۔ سونا بغیر چہل پہل کے
یے روئے ماں بھی دودھ نہیں دیتی مثل (بغیر کوشش کے
کچھ نہیں ملتا۔

بے ریا۔ ۱۱۔ دکھاوے کے بغیر۔ بلا تصنع۔ صاف باطن (۲) ایمان دار
آدھی مخلص۔

بے ریش اف۔ صفت ۱۱۱۔ ڈاڑھی کے بغیر (۲) نا تجربہ کار اور نادان
بے وقوف۔

بے ریشیتہ (ن)۔ صفت اصوف کے بغیر۔ صاف۔ جس میں گیس نہ ہوں
بے زار اف۔ صفت ۱۱۱۔ ناخوش۔ ناراض (۲) افسردہ۔ پریشان۔

بے زبان اف۔ صفت اے بولنے والا۔ گونگا (۲) خاموش۔ چپ کم گو
۱۲۱۔ با شرم۔ با حیا (۴) مظلوم۔ مجبور (۵) حیوان۔ جانور

بے زراف۔ صفت افسس۔ عزیز۔ کنگال۔ تنگ دست۔
بے زرع عشق طمس طمس (مثل) بغیر زر کے عشق عاشقی، باری آسانی
نہیں چلتی۔

بے زری اف۔ صفت ۱۱۱۔ افساس۔ احتیاج۔ محتاجی۔

بے زوال اف۔ صفت اے قائم۔ بے زوال۔
بے زبرد اف۔ صفت اے بغیر پتے کے۔ بغیر غصے کے۔ بغیر کمنے کے
۱۲۱۔ بیخ۔ حاکم۔ نیک مزاج۔

بے ساختگی اف۔ صفت اے سادگی۔ بناوٹ نہ ہونا۔ بھولپن
بے ساختہ اف۔ صفت ۱۱۱۔ خود بخود بلا تصنع۔ بے ارادہ۔ برجستہ
فی البدیہہ۔ بلا تامل۔ غور و فکر کے بغیر (۲) بچرل۔ فزرتی۔ سادہ۔
بے ساختہ کن اف۔ ۱۔ بلا سادہ پن کے کلفتی۔ برجستگی۔ بے ساختگی۔
بے ساز بے ساز و سامان۔ بے سامان (ن)۔ صفت اے بغیر مال
اسباب کے۔ بغیر یوریا بستر کے۔ ہتھیاروں کے بغیر۔

بے سامانی اف۔ ۱۔ صفت اے زری۔ فلسفی۔ اسباب و اکات کا نہ ہونا
بے سبب اف۔ صفت اے ضرورت۔ بے وجہ۔ بلا نتیجہ۔
بے سمت اف۔ صفت اے طاقت بے قابو۔

بے ستر اف۔ صفت اے پردہ۔ تنگا۔ ۲۱۔ اے عزت۔
بے ستون اف۔ صفت اے بغیر ستونوں کے۔ بغیر پایوں کے (۲) بے بنیاد
ناچیز (۳) ایران کا ایک پہاڑ۔

بے سہارا۔ صفت اے سہوش۔ نافرہم۔ بے عقل۔
بے سہارا دارہ۔ بدچلن (۲) بے سہارا (۴) خود سہارا دار
بے سہارا۔ بے تالا۔ بد آواز۔

بے سہویا اف۔ صفت اے دل پر لبیبان۔ بے معنی۔ غلط۔ جھوٹ۔
بے بنیاد۔ مہمل۔

بے شرت ۱۱۔ صفت اے ہوش بے وقوف۔ احمق۔ محتاج
بے سرو سامان اف۔ صفت اے زر۔ فلسفے بے نوا۔ فقیر۔ کنگال
بے سلیکھتہ اف۔ صفت ۱۱۱۔ اے شعور بے تیز بے ڈھنگا (۲) بھروسہ
بے سود اف۔ صفت اے فائدہ۔ رائیگاں۔
بے شائبہ۔ یقیناً۔ بے شبہ۔

بے دوش (۱۱۔ صفت) بے گناہ۔ بے تصور۔ بے خطا (۲) بے عیب
(۳) عمدہ۔ اچھا۔

بے دولت۔ بد نصیب۔ عزیز۔ مفلس۔
بے دو لہا کی برات (۱۱۔ صفت) بے معنی جلسہ۔ بے مطلب اجتماع۔
بے دھڑک (۱۱۔ صفت) بے خوف۔ بے اندیشہ (۲) بے تکلف
بے تامل (۳) دلیر۔ بہادر۔

بے دہن اف۔ صفت اے شخص جو بات کہنے پر قادر نہ ہو (دہن یعنی منہ)
بے دید (۱۱۔ صفت) بے مروت سے لحاظ۔ بے حیا۔

بے دیکھے بھالے (۱۱۔ صفت) بغیر تحقیقات کے بے سوچے سمجھے۔
آزمانے بغیر۔

بے دین اف۔ صفت اے ایمان۔ بد مذہب۔
بے ڈول (۱۱۔ صفت) بے ڈھنگا۔ بد نما۔ بھونڈا۔ بد مزہب۔ ناموزوں
بے ڈھب (۱۱) بے طرح (۲) بے موقع (۳) بے قابو (۴) بے ڈھنگا۔

(۵) بہت زیادہ (۶) عجیب۔ اگواکھا۔ طرفہ (۷) جالاک۔ مینٹنی (۸)
ظالم۔ بے رحم (۹) داؤ پیچ میں نہ آنے والا۔ زور آور (۱۰) دلیر (۱۱)
کٹھن۔ دشوار (۱۲) مہلک۔ خطرناک

بے ڈھنگا (۱۱) بے سلیقہ۔ بے قاعدہ (۲) نامائشا سنتہ۔ ناموزوں۔
بد مزہب۔ بد نما (۳) بد چلن۔ بد اطوار۔ بے راہ۔

بے ڈھنگی (۱۱) صفت اے ڈھنگا کی تائید۔
بے ڈھنگی بات (۱۱) صفت اے بات جو خلاف دستور ہو بے موقع بات
بے ذوق اف۔ صفت اے مزہ۔ بھیکا۔

بے راہ اف۔ صفت ۱۱۱۔ گراہ۔ بے طرفی (۲) بے اصول (۳) غلط ہے
۱۲) اخلاف قاعدہ (۵) بد چلن۔ بد اطوار (۶) ناجائز۔ خلاف رسم و رواج
بے راہ رواں۔ صفت اے غلط رستہ پر چلنے والا۔ بد چلن ہونا۔

بے راہ روی (۱) بد چلتی۔ آوارگی۔
بے ربط اف۔ صفت اے تعلق۔ بے واسطہ (۲) بے موقع۔

بے رت (۱) صفت اے موسم۔ بے فصل۔
بے رحم اف۔ صفت اے سخت ظالم۔ نامہربان۔ سنگ دل۔
بے سخا ہونا (۵) محاورہ (۱۱) منہ بھیرنا بے مروت ہونا (۲) ناراض ہونا۔
خفا ہونا۔ (۳) دھیان نہ کرنا۔

بے رخی اف۔ ۱۔ صفت اے بیروتی۔ بے لحاظی۔ بے توجہی۔
بے رخی کرنا (۵) محاورہ (۱) توجہ نہ کرنا۔ پروا نہ کرنا۔

بے رنگ (۱۱) صفت اے موقع۔ اس چیز کی نسبت کہنے میں جس میں
کوئی لطف نہ ہو۔ بے لطف۔ بھیکا۔

بے روپ (۱۱) صفت (۱) بد شکل (۲) بد رنگ (۳) ناقص۔ خراب
۱۲) بے رونق۔ بھدا۔

بے روزگار اف۔ صفت (۱) جس کا کوئی ذریعہ نہ ہو۔ بے کار
بے روزہ (ن) صفت (۱) جس کا روزہ نہ ہو۔

بے روک ٹوک (۱۱) صفت اے خوف۔ بے خطر بے اندیشہ۔ اطمینان
سے۔ بغیر روکے جانے کے۔

بے روک ٹوک (۱۱) صفت (۱) بد شکل (۲) بد رنگ (۳) ناقص۔ خراب
۱۲) بے رونق۔ بھدا۔

بے روزگار اف۔ صفت (۱) جس کا کوئی ذریعہ نہ ہو۔ بے کار
بے روزہ (ن) صفت (۱) جس کا روزہ نہ ہو۔

بے روک ٹوک (۱۱) صفت اے خوف۔ بے خطر بے اندیشہ۔ اطمینان
سے۔ بغیر روکے جانے کے۔

بے فضل ان صف اے وقت۔ موسم کے خلاف۔ ناسلے کے بغیر مسل
بے فضل کی بہار ان۔ ۱۔ مہنت، ۱۱۔ موسم کے خلاف ۱۲۔ بے موسم پہل
بہتے وقت پھیری والے کی صدار۔

بے فکر بے فکر ان۔ ۱۔ صف، فکر سے بری۔ بے پروا غور و فکر
بے کرنے والا۔ آزاد۔

بے فیض ان صف ۱۱۔ شوم، نجیل، بخوس ۱۲۔ وہ شخص جس سے
کوئی فائدہ نہ ہو۔

بے فیض اگر بوسفت ثانی سے تو کیا ہے (مثیل) جس سے اپنا
مطلب پورا نہ ہو وہ کسی کام کا نہیں۔

بے قابو ان صف ۱۱۔ قابو سے باہر۔ اختیار سے باہر ۱۲۔ آزاد خود مختار
بے قاعدہ ان صف اصول کے خلاف، بے ترتیب، قاعدے کے خلاف
بے قدر ان صف ۱۱۔ بے عزت، ذلیل ۱۲۔ قدر نہ کرنے والا۔
نا قدر دان۔ ناشکرا۔

بے قرار ان صف بے صبر، بے تاب، بے چین۔

بے قریب ان صف بے موقع، بے ٹھکانے، پریشان۔ بے ترتیب
بے قصد ان صف بے ارادہ، یوں ہی، دفعتاً۔

بے قضا مارا جانا محاورہ بے موت مارا جانا۔

بے قصور ان صف بے خطا، بے گناہ، بے جرم۔

بے قیاس ان صف خیال سے باہر سمجھ سے دور ۱۲۔ لا انتہا
بہت، بے شمار۔

بے قید ان صف ۱۱۔ آزاد، خود مختار ۱۲۔ بے روک جو کسی پابندی
کو اختیار نہ کرے۔

بے کار ان صف (گنما، ناکارہ ۱۲) ناقص، خراب ۱۳۔ بے روزگار۔
۱۴۔ معطل، خالی۔

بے کار سے بیگار بھلی (مثیل) بے کار رہنے سے بغیر معاوضہ کے
کام کرنا اچھل ہے۔

بے کامیابی کچھ کیا کر۔ کپڑے ہی ادھیڑ کر سیا کر (مثیل) خالی
رہنے سے کپڑوں کا ادھیڑ کر سینا ہی اچھا ہے۔ آدمی کو کچھ شغل
ضرور چاہیے۔

بے کاری۔ بے روزگاری۔ نکتا پن

بے کمر ان صف بہت زیادہ۔ نہایت وسیع ۱۲۔ اے کنارہ
بے کس ان صف ۱۱۔ بے بار و مددگار۔ دوست آشنا کے بغیر
تینا۔ اکیلا۔ محتاج۔ کنگال ۱۴۔ مسافر۔ پرہیزی ۱۵۔ یتیم۔

بے کسی ان صف ۱۱۔ اکیلا پن بے مددگاری، عاجزی، لا چاری۔

بے کل ان صف ۱۱۔ بے چین، بے قرار، بے آرام، بے تاب۔

بے کلی ان صف ۱۱۔ بے چینی، بے قراری، بے آرامی

بے کم و کاست ان صف بالکل درست، ٹھیک ٹھیک
کمی بستی کے بغیر۔

بے گامی ان صف ۱۱۔ بے تعلقی۔

بے گانہ ان صف ۱۱۔ غیر بہا یا بگا نہ کی ضد ۱۲۔ جنبی پرہیزی

بے شعور ان صف اے نقل بے تمیز، نادان، (مخفی) صحیح ۱۳
بے شک ان صف ۱۱۔ بے شبہ ۱۲۔ درست، ٹھیک۔ صحیح ۱۳
لازمی، ضروری۔

بے شمار ان صف ۱۱۔ بے حساب، شمار سے باہر ۱۲۔ بکثرت، زیادہ
بے صبر ان صف ۱۱۔ جو صبر نہ کر سکے، بے چین، بے قرار، مضطرب
بے صبر کی ان صف بے قراری، بے اطمینانی، گھبراہٹ۔

بے صرفہ ان صف بے فائدہ، بہت زیادہ، بغیر احتیاط کے۔
بے نصابہ ان صف بے قاعدہ، خلاف قانون، بے طریقہ۔

بے ضابطگی ان صف بے قاعدگی۔
بے ضرورت ان صف جس کی ضرورت نہ ہو۔

بے طالع ان صف ابد نصیب، بد قسمت۔
بے طرح ان صف ۱۱۔ بری طرح، عجیب طور پر ۱۲۔ بے حد زیادہ
۱۳۔ اختلاف و دستور ۱۴۔ وہ عمل جو مصراع طرح کے خلاف پڑھی جائے

بے طریق ان صف انا جائزہ طور پر۔ بے قاعدہ۔
بے طلبت ان صف بغیر مانگے، بن بلائے۔
بے طمع ان صف بغیر مانگے، مستغنی۔

بے طور ان صف بری طرح بہت زیادہ۔
بے عدل ان صف بے مثال، بے نظیر۔

بے عزت ان صف ذلیل، غوار، بدنام، بے آبرو۔
بے عزتی کرنا محاورہ بے آبرو کرنا، بے توقیر کرنا۔

بے عقل ان صف انا سمجھ، کم فہم، نادان، بے ذوق۔
بے عدلت ان صف اے وجہ کے سبب۔

بے عنوان ان صف جس کا کوئی عنوان نہ ہو، سرخی کے بغیر
بے فائدہ۔

بے عنوانی بے قاعدگی، بے ضابطگی، بد انتظامی۔
بے عیب ان صف ۱۱۔ پاک، صاف ۱۲۔ عمدہ، اچھا، کھرا ۱۳۔
بے درغ۔ بے نقص۔

بے عیب ذات بخدا کی ۱۱۔ مفقود، اخذ اعلیٰ کی ذات میں کسی
قسم کا عیب اور نقص نہیں۔

بے غایت ان صف بے حد، بے انتہا۔
بے عرض ان صف خواہش نہ رکھنے والا، بے تعلق، بے پروا، طبع
بے عمل و غش ان صف ۱۱۔ تلا تکلف، بے دروغ۔
اندھا دھند، بے پروائی ۱۳۔ بلا محنت و تکلیف، غل و غش یعنی کم ہمت
بے علم ان صف جسے علم نہ ہو، خوش، گمن، بے فکر۔

بے غیرت ان صف بے حیاء، بے شرم، بے حیثیت، بے حیاء۔
بے غیرتی پر کر باندھنا محاورہ بے حیائی پر آراہہ ہونے پر شرم بن جانا
بے غیرتی کا ٹھیکر آنکھوں پر رکھنا بے غیرتی کا جامہ پہننا۔
محاورہ بے غیرت بن جانا، بے حیاء بن جانا۔

بے فائدہ ان صف بے کار، فضول، ناحق، بے وجہ، بے ضرورت

بے منتا (۱) کسی کا احسان نہ اٹھانے والا (۲) دو شاخی لکڑی جس میں کپڑا باندھ کر جھنگڑ لوگ جھانگتے ہیں۔
بے موت مرنا (محاورہ) قلیل از وقت مرنا۔

بے موجب (ف۔صف) (۱) بے سبب۔ بلا وجہ (۲) ناحق۔ نا واجب
بے موسم (ف۔صف) بے رت۔ بے وقت۔
بے موقع (ف۔صف) (۱) بے محل بے وقت (۲) نامناسب یا زیادتی
بے مہار (ف۔صف) آزاد۔ بے روک۔
بے جہر۔ (ف۔صف) بے محبت۔ بے رحم۔ بے مروت۔
بے جہری۔ بے محبتی۔ بے رحمی۔ بے نزہتی
بے میل (۱) صف) جو کسی سے مطابقت نہ رکھتا ہو۔ بے جوڑ۔
بے ربط۔

بے نام (۱) صف) گم نام۔
بے نام و نشان (ف۔صف) بے پتا۔ بے ٹھکانا۔
بے نصیب (ف۔صف) (۱) بد بخت۔ بد نصیب (۲) محروم (۳) نالائق
ناشائستہ

بے نظر (ف۔صف) لاشائی۔ بے بدل۔ بے مانند۔ بے مثال۔ بیشل
بے نقط (ف۔صف) وہ لفظ جس پر کوئی نقطہ نہ ہو۔ غیر منقوط
بے نقط سنانا (محاورہ) بے اتہاگالیاں سنانا۔ بے تعداد طعنے دینا۔
بے نقط گالیاں دینا (محاورہ) بخش گالیاں دینا۔
بے نماز (ف۔صف) نماز نہ پڑھنے والا۔ تارک نماز (۲) حائضہ
ایام ماہواری سے۔

بے نماز ہونا (محاورہ) (۱) نماز نہ پڑھنے والا ہونا (۲) حائضہ ہونا۔
ماہواری ایام سے ہونا۔

بے نمک (ف۔صف) (۱) اُلٹا۔ پھیکا۔ بے مزہ (۲) رنگت میں
ملاحت کا نہ ہونا۔ رنگت کا کشن نہ کرنا۔ چہرے کے لبے لالہ نہ ہونا
بے نمک آواز (ف۔صف) وہ آواز جس میں پھر لطف نہ ہو۔
بے نمود (ف۔صف) غیر نمایاں۔ غیر اہم۔ غیر مشہور۔ کم رتبہ۔

بے رنگ (ف۔صف) بے سترم۔ بے حیا۔ بے عزت۔
بے رنگ (نام) ناموس (۱) بے سترم۔ بے حیا (۲) بد وضع۔ بد چہرہ۔
بے نوا (ف۔صف) بے سامان۔ فقیر۔ بے کس۔

بے نوا ہونا (محاورہ) بے نوا فقیر کا انداز اختیار کرنا۔
بے نیاز (ف۔صف) بے پروا۔ ناطح۔ بے غرض۔ مستغنی
بے نیاز (۱) بے پروائی۔ استغناء (۲) آزادی۔ خود مختاری۔
بے نیل (مرام) (ف۔ع۔صف) ناکام و نامراد مقصد حاصل کیے
بغیر آئیل معنی پہنچنا۔ (مرام) معنی غرض۔ مطلب (۱)

بے وارث (۱) صف) جس شخص کا کوئی مددگار نہ ہو۔ کوئی نہیں
بے وارثی (ناظر) نواں ڈول (مثلاً) وارثی چیز کی فکر کسی کو نہیں
ہوتی۔ بغیر مالک کے سب کام خراب ہوتے ہیں۔
بے وجہ (ف۔صف) بغیر کسی سبب کے۔
بے وجہ (ب۔ع۔فعل) بغیر کسی سبب کے۔

(۱۳) خورد و رو۔
بے گاتہ دار (دش۔غیروں کی طرح۔ اجنبی کی طرح۔
بے گاتی کھیتی پر کھینکنا چپے (مثلاً) دوسرے کے جھوسے یا
حیثیت پر غور کرنا۔

بے گماں (ف۔صف) بے شک۔ بے شبہ۔
بے گناہ (ف۔صف) بے قصور۔ بے خطا۔ بے جرم۔
بے گناہی (۱) صفت) بے جرم ہونا۔ بے قصور ہونا۔
بے گنت (۱) صف) بے حساب۔ بے شمار۔ بے انتہا۔
بے گور و کفن (ف۔صف) جسے نہ کفن ملے اور نہ دفن ہو سکے۔
بے گھ (۱) صف) (۱) بے ٹھکانے۔ بے گھر۔ خانہ خراب۔ بر بار (۲)
آوارہ۔ سرگرداں (۳) بیوی بچے نہ رکھنے والا۔
بے لاگ (۱) صف) بے غرض۔ صاف۔ سنھرا۔ پاک (۲) غیر طرف دار
بے تعصب۔

بے لحاظ (ف۔صف) (۱) بے شرم۔ بے حیا۔ بے غیرت (۲) شوخ۔ بے ادب
بے لطف (ف۔صف) بے مزہ۔ بے لذت۔ بے ذائقہ۔
بے لگام (ف۔صف) (۱) منہ زور۔ سرکش۔ شہر گھوڑا (۲) (کتابتاً)
گستاخ۔ منہ پھٹ۔ بے ادب۔ بد زبان۔

بے لگاؤ (۱) صف) (۱) بے جوڑ۔ بے ربط (۲) بے لاگ۔
بے لوث (ف۔صف) خالص۔ بے آمیزش (۲) بے غرض۔ پرمخلص۔
بے لیے لیے (۱) صف) بغیر صرف کرنے کے۔ بغیر خرچ کیے
بغیر رشوت دیے۔

بے بات (۱) صفت) سوتیلا۔ سوتیلی۔ بغیر ماں کا بغیر ماں کی۔
بے مادم (ف۔صف) انفسانیت کے بیچے خودی کی حالت ظاہر کرنے کو کہتے ہیں۔
بے مائی (ف۔صف) فلسفی۔ دولت اور مایہ کا نہ ہونا۔

بے ماسر (ف۔صف) بے دولت۔ مفلس۔ غریب۔ ناوار
بے مثال (مثلاً) جس کی مثال نہ ہو۔ لاجواب۔ لاشائی۔
بے حجاب (ف۔صف) بے خوف۔ بے دھڑک۔ بلا تامل۔
بے محل (ف۔صف) بے موقع۔ بے جا۔ نامناسب۔
بے مروت (ف۔صف) (۱) لحاظ نہ کرنے والا۔ طوطا چشم (۲) ناچار
بے درد۔ ظالم۔

بے مزگی (ف۔صف) (۱) بے لطفی (۲) رنجیدگی۔ شکر رنجی (۳) ناسازی
علاقت۔

بے مزہ (ف۔صف) بے لذت۔ بد ذائقہ۔ بے لطف (۲) ناساز۔
عبیل۔ بیماری (۳) رنجیدہ۔ ناراض۔ بخفا۔
بے مصروف (ف۔صف) بے فائدہ۔ بے نتیجہ۔ بے کار۔ نکم۔

بے معنی (ف۔صف) محفل۔ لغو۔ بے ہودہ۔ بے سرو پا۔
بے مغز (ف۔صف) خالی۔ گھوکھیل۔
بے مفرد (ف۔صف) غریب۔ مفلس۔ بے حیثیت۔
بے منت (ف۔صف) (۱) بے احسان (۲) بے نیاز۔ بے پروا۔
مستغنی (۳) بے محنت۔ بلا کوشش (۴) بلا غور و خوض۔

لے وحدت اف نصف اے شرم، بے جیا، بے ادب، بد لحاظ۔
بنے وطن (ن. نصف) ۱۱) وطن اور ملک سے نکالا ہوا (۲۱) مسافر
جو اپنے ملک میں نہ ہو۔

بے وطنی (ن. مٹ) پردیس۔ اپنے ملک سے باہر ہونا۔
بے وسواس (ہ) اے کھٹکے، بدلتا تیل۔

بے وفات (ن. نصف) بد عمدہ۔ وعدہ نہ پورا کرنے والا (۲) بے مروت
ناہریان (۳) ناشکر گزار (۴) جو دوستی کا حق ادا نہ کر سکے۔

بے وفائی (ن. مٹ) ۱۱) بد عمدی بے مروتی (۲) ادغا بازی نمک
حرابی (۳) بدکاری۔ (۴) ناشکر گزاری۔

بے وقار (ن. نصف) بے عزت، بے قدر۔ ذلیل، خوار، اوجھا۔
بے وقت (ن. نصف) بے موقع۔ بے محل۔ آؤ سو بے۔

بے وقت کا (اب) (رک) ۱۱) مذ ان مناسب جھگڑا۔ بے موقع بات
بے وقت کی راگینی، شہنائی، محاورہ بے موقع کام۔ وہ کام جو

مناسب وقت پر نہ کیا جائے۔
بے وقت کی سوچھنا (محاورہ) اے موقع بات کرنا نامناسب جھگڑا
نے وقت (ن. نصف) بے عزت۔ ذلیل۔ کم ظرف۔ فرومایہ۔

بے وقربی۔ بے عزتی۔ ذمت۔ خواری۔ رسوائی۔
بے وقعت (ن. نصف) بے عزت، بے اعتبار۔ بے وزن۔

بے وقوف (ن. نصف) بے عقل۔ احمق۔ نادان۔
بے وقوف کے سر پر کیا سینک ہوتے ہیں (مثیل) بیوقوف
کی کوئی خاص ظاہر ہی پہچان یا علامت نہیں ہوتی۔

بے وقوفی (ن. مٹ) نادانی، حماقت۔ بے عقلی، جہالت۔
بے ہمت (ن. نصف) ۱۱) کم حوصلہ۔ پست ارادے والا (۲) است

کابل (۳) بزدل۔ نامرد۔
بے ہمتی (ن. نصف) بے مثل، جس کے برابر کوئی نہ ہو۔ بے نظیر۔

بے ہنم (ن. نصف) بے ہنم، بے ہنسی، بے ہنسی، بے ہنسی، بے ہنسی،
اور کسی کا ہنسی نہیں (۲) ایسا شخص جو مکروہات ذہنی اور جھگڑے

فساد سے الگ رہ کر تمام لوگوں سے میل جول رکھے۔
بے ہنر (ن. نصف) ۱) ادھ شخص جسے کوئی کام نہ آتا ہو۔
نما۔ بھوسہ۔

بے ہنری (ن. نصف) بے ہنسی، بے ہنسی، بے ہنسی، بے ہنسی،
بے ہنسی، بے ہنسی، بے ہنسی، بے ہنسی، بے ہنسی، بے ہنسی،

بے ہنری (ن. نصف) بے ہنسی، بے ہنسی، بے ہنسی، بے ہنسی،
بے ہنسی، بے ہنسی، بے ہنسی، بے ہنسی، بے ہنسی، بے ہنسی،

بے ہنری (ن. نصف) بے ہنسی، بے ہنسی، بے ہنسی، بے ہنسی،
بے ہنسی، بے ہنسی، بے ہنسی، بے ہنسی، بے ہنسی، بے ہنسی،

بے ہنری (ن. نصف) بے ہنسی، بے ہنسی، بے ہنسی، بے ہنسی،
بے ہنسی، بے ہنسی، بے ہنسی، بے ہنسی، بے ہنسی، بے ہنسی،

بے ہنری (ن. نصف) بے ہنسی، بے ہنسی، بے ہنسی، بے ہنسی،
بے ہنسی، بے ہنسی، بے ہنسی، بے ہنسی، بے ہنسی، بے ہنسی،

بے ہنری (ن. نصف) بے ہنسی، بے ہنسی، بے ہنسی، بے ہنسی،
بے ہنسی، بے ہنسی، بے ہنسی، بے ہنسی، بے ہنسی، بے ہنسی،

بے بار و مددگار۔ (ن. نصف) بے سہارا، بے کس۔ ایکلا، جس کا
کوئی مساعی نہ ہو۔

بیابان (یا) (ہ) (ن. نصف) [بیابان کی طرح کا ایکس پرندہ، اس کا گھر بنانا
بڑا مشہور ہے۔

بیابان (یا) (ہ) (ن. نصف) [بیابان کی طرح کا ایکس پرندہ، اس کا گھر بنانا
بڑا مشہور ہے۔

بیابان (یا) (ہ) (ن. نصف) [بیابان کی طرح کا ایکس پرندہ، اس کا گھر بنانا
بڑا مشہور ہے۔

بیابان (یا) (ہ) (ن. نصف) [بیابان کی طرح کا ایکس پرندہ، اس کا گھر بنانا
بڑا مشہور ہے۔

بیابان (یا) (ہ) (ن. نصف) [بیابان کی طرح کا ایکس پرندہ، اس کا گھر بنانا
بڑا مشہور ہے۔

بیابان (یا) (ہ) (ن. نصف) [بیابان کی طرح کا ایکس پرندہ، اس کا گھر بنانا
بڑا مشہور ہے۔

بیابان (یا) (ہ) (ن. نصف) [بیابان کی طرح کا ایکس پرندہ، اس کا گھر بنانا
بڑا مشہور ہے۔

بیابان (یا) (ہ) (ن. نصف) [بیابان کی طرح کا ایکس پرندہ، اس کا گھر بنانا
بڑا مشہور ہے۔

بیابان (یا) (ہ) (ن. نصف) [بیابان کی طرح کا ایکس پرندہ، اس کا گھر بنانا
بڑا مشہور ہے۔

بیابان (یا) (ہ) (ن. نصف) [بیابان کی طرح کا ایکس پرندہ، اس کا گھر بنانا
بڑا مشہور ہے۔

بیابان (یا) (ہ) (ن. نصف) [بیابان کی طرح کا ایکس پرندہ، اس کا گھر بنانا
بڑا مشہور ہے۔

بیابان (یا) (ہ) (ن. نصف) [بیابان کی طرح کا ایکس پرندہ، اس کا گھر بنانا
بڑا مشہور ہے۔

بیابان (یا) (ہ) (ن. نصف) [بیابان کی طرح کا ایکس پرندہ، اس کا گھر بنانا
بڑا مشہور ہے۔

بیابان (یا) (ہ) (ن. نصف) [بیابان کی طرح کا ایکس پرندہ، اس کا گھر بنانا
بڑا مشہور ہے۔

بیابان (یا) (ہ) (ن. نصف) [بیابان کی طرح کا ایکس پرندہ، اس کا گھر بنانا
بڑا مشہور ہے۔

بیابان (یا) (ہ) (ن. نصف) [بیابان کی طرح کا ایکس پرندہ، اس کا گھر بنانا
بڑا مشہور ہے۔

بیابان (یا) (ہ) (ن. نصف) [بیابان کی طرح کا ایکس پرندہ، اس کا گھر بنانا
بڑا مشہور ہے۔

بیابان (یا) (ہ) (ن. نصف) [بیابان کی طرح کا ایکس پرندہ، اس کا گھر بنانا
بڑا مشہور ہے۔

بیابان (یا) (ہ) (ن. نصف) [بیابان کی طرح کا ایکس پرندہ، اس کا گھر بنانا
بڑا مشہور ہے۔

کنایہ وغیرہ سے بحث کی جاتی ہے (۱) منقولہ بات. کلام جمع بیان
بیان امر واقعی (ع ۱-۱) مذ) ٹھیک ٹھیک بات کا اظہار
بیان بدلتا (محاورہ) اپنے قول اظہار یا فتہادت کو پلٹنا کہے ہوئے
کے خلاف کہنا۔

بیان تائیدی (ع ۱-۱) مذ) کسی کی تائید میں گوہی۔
بیان تحریری (ع ۱-۱) مذ) تحریر جو مدعا علیہ عرضی دعویٰ کے جواب
میں داخل عدالت کرتا ہے (۲) وہ بیان جو لکھا گیا ہو۔
بیان تقریری (ع ۱-۱) مذ) زبانی بیان۔

بیان دعویٰ (ع ۱-۱) مذ) ثبوت دعویٰ صورت حال حقیقت حال
بیان ضمنی (ع ۱-۱) مذ) وہ جو اصل مطلب کے درمیان پونہی آجائے۔
بیان سے باہر ہونا (محاورہ) مفصل کیفیت ادا نہ ہو سکتا۔
بتان کرنا (۱۱) ظاہر کرنا۔ گفتگو کرنا۔ کہ (۲) سرگذشت دہرانا۔

بیانا اب۔ یا۔ نا (۱) مص [جنا۔ موسیقی کا بچہ دینا۔
بیاء اب۔ یا۔ (۱) مذ) شادی۔ گندنی عقدہ۔ نکاح۔
بیانہ پچھے پتل بھاری (مثل) بڑے مصارف کے بعد حقوڑا خرچ
بھی ناگوار ہوتا ہے۔

بیاء رحمانا (محاورہ) شادی کا سامان کرنا۔ (۲) خوشی منانا۔
بیاء کا جوڑا (۱) مذ) وہ کپڑے جو توشہ یا عروس شادی کے موقع پر
پہنتے ہیں۔

بیاء مانگنا (محاورہ) شادی کی خواہش کرنا (۲) مانع ہونا (۳) برت لانے
کی تائید دریافت کرنا۔ بیاء کا دن بھڑانا۔
بیاء نہیں کیا برتیں تو دیکھی ہیں [مثل] اگرچہ یہ کام خود نہیں کیا
اوروں کو کرتے تو دیکھا ہے۔

بیابا اب۔ یا۔ (۱) مذ) صف [نکاح شدہ۔ شادی شدہ۔ کتھا۔
بیابتا اب۔ یا۔ (۱) مذ) وہ بیوی جسے شرعی طور پر عقد میں
لا لیا گیا ہو۔ منکوحہ۔

بیابتا اب۔ یا۔ (۱) مذ) صف [شادی کرنا۔ کتھا بننا۔
بیابنی اب۔ یا۔ (۱) مذ) شادی کرنا۔ کتھا بننا۔
بیابنی بیٹی کا رکھنا یا کھنی کا باندھنا ہے (مثل) لڑکی کی شادی
کے بعد اسے گھر میں رکھنا ایسا ہے جیسے ہاتھی کا باندھنا۔ یعنی
مصارف بہت زیادہ ہوتے ہیں۔

بیابنی لڑکی بڑوس داخل (مثل) ایسا ہو جانے پر بیٹی کا تعلق پورن
کا سا ہوتا ہے۔
بیابنی نہ برات چیرٹھی، ڈوٹی میں بیٹھی نہ چوں چوں ہونی (مثل)
جس بات کو دیکھا سہی نہیں اس کا پتہ کیونکر ہو سکتا ہے۔

بیابی اب۔ یا۔ (۱) مذ) غلہ تو لے لے لے کو اجرت میں
میں دیا ہوا غلہ (۳) غلہ تو لے لے کی اجرت۔
بے بی (Baby) [انگ ۱-۱] مذ) بچہ
بلیا (بے یا) (۱) مذ) بیوپار۔ تجارت۔ سوداگری۔ بیچ۔
بیباری بے۔ پارری (۱) مذ) بیوپاری۔ تاجر۔ سوداگر۔

بیت (ع ۱-۱) مذ) ۱۱ گھر۔ حویلی۔ مکان۔ محل۔ جمع بیوت
بیت الانصی (ع ۱-۱) مذ) بیت المقدس۔
بیت الامراء۔ وہ مقام جہاں امراء کے طبقے کے لیے مخصوص ہو۔
جہاں وہ مجلس مشاورت منعقد کرتے ہیں۔

بیت اطرام (ع ۱-۱) مذ) خانہ کعبہ (۲) مکہ معظمہ (۳) وہ احاطہ جہاں قتل
شکار اور گرفتاری منع ہے۔
بیت الحزن (ع ۱-۱) مذ) گھر۔ روح کا مقام۔ مصیبت کا گھر (۲)
آجمازا عاشق کے رہنے کی جگہ۔

بیت الخلاء (ع ۱-۱) مذ) اجائے ضرور۔ پاخانہ ٹھی۔ بول و براز سے
فراغت پانے کا گھر۔
بیت التفریح (ع ۱-۱) مذ) دوزخ۔
بیت التسلح (ع ۱-۱) مذ) اسلحہ خانہ۔ میگنیزین۔

بیت الشرف (ع ۱-۱) مذ) ۱۱ رسانی کا مقام جہاں پہنچ کر نہرگی
اور عزت حاصل ہوا (۲) بزرگی کا گھر عزت کا گھر (۳) معشوق کا گھر
(۴) قصر شاہی۔ بادشاہ کا ملاقاتی مکان (۵) آفتاب کے لئے برج
حمل جانے کے لیے برج ثور منتشری کو برج سرطان زہرہ کو جوت
عطار کو سنبلہ برج کو جدی اور زحل کو میزان۔ وہ برج جس میں
کوئی سیارہ عروج کو پہنچے۔

بیت الصنم (ع ۱-۱) مذ) بت خانہ۔ شوالہ۔ مورتی کا استھان (۲)
خانہ محبوب۔
بیت العتین (ع ۱-۱) مذ) ۱۱ پرانا مکان۔ قدیم گھر (۲) خانہ کعبہ جو عبادت
الہی کے لیے دنیا میں سب سے پہلا مقام اور مکان ہے جسے حضرت
آدم علیہ السلام نے خدا کی عبادت کے لیے تعمیر کیا تھا۔

بیت العروس (۱) مذ) دلہن کا گھر (۲) خانہ کعبہ۔
بیت العلوم۔ کالج۔ یونیورسٹی
بیت العقبوت۔ مکڑی کا جالا یعنی گھر۔
بیت العوام (ع ۱-۱) مذ) ایوان زیریں۔ مجلس قانون ساز کا وہ
ادارہ جس میں عوام کے نمائندے ہوں۔

بیت العزلی (ع ۱-۱) مذ) غزال کی راج۔ غزال کی جان کا بہترین کر
بیت اللہ (ع ۱-۱) مذ) اللہ کا گھر۔ خانہ کعبہ
بیت المال (ع ۱-۱) مذ) مال گھر۔ خزانہ عامہ۔ سرکاری خزانہ شاہی
خزانہ (۲) حیات انٹرنٹ (۳) ملک کا حاصل (۴) وہ مال جس کا کوئی
خاص مالک نہ ہو عام لوگوں کا حصہ ہو اور جس سے ہر مستحق کو مدد
دی جائے۔

بیت المصنوع (ع ۱-۱) مذ) بھر گھر۔ آباد مکان (۲) اصطلاحاً خانہ کعبہ
کے عین اور برآسمانوں پر خانہ مٹھا جہاں فرشتے کثیر تعداد میں طواف
اور عبادت کرتے رہتے ہیں۔
بیت المقدس (۱) پاک گھر۔ متبرک مکان (۲) مجازاً [خانہ خدا
(۳) مسجد اقصیٰ۔ جو روٹلم کی عبادت گاہ جس کی بنیاد حضرت
داؤد نے ڈالی اور تکمیل حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی۔

بیت (ع۔ ا۔ ۱۔ ۱) مذ ایک وزن کے دو مصرعے۔ شعر
 بیت باری۔ شعروں سے مقابلہ کرنا۔ لڑکوں کا ایک مشغلہ۔
 ایک لڑکا شعر پڑھتا ہے۔ جواب میں دوسرا لڑکا ایسا شعر پڑھتا
 ہے جو اس حرف سے شروع ہوتا جس پر پہلا شعر ختم ہوا تھا۔
 بیت بندی۔ نظم کہنا۔ شعر کہنا۔
 بیتال ایسے تال (۱۔ ۱۔ ۱) مذ [بھوت پلیدہ جس روح۔ بھوت پریت
 بلا۔ آسب۔

بقیلا (بیت۔ ۱۔ ۱) مذ [لاوارش مال۔ وہ مال جس کا کوئی مدعی
 نہ ہو (۲) خراب اور نکال ماں (۳) کم بخت۔ بد نصیب۔
 بیتنا (بیت۔ ۱۔ ۱) مص [۱] گزرنا۔ بسر ہونا (۲) رفع و نفع ہونا (۳)
 واقع ہونا۔
 بیٹی (بی۔ تی۔ ۱۔ ۱) مذ [۱] گزری ہوئی بات (۲) سرگزشت کہانی
 بیٹ (Bat) (انگ۔ ۱۔ ۱) مذ [۱] کڑھ کھیلنے کا آلہ۔
 بیٹ (۱۔ ۱) مذ [۱] پینچال۔ پرندوں کا گوہ (۲) ایک قسم کا نمک
 جس میں گڑھک ملی ہوئی ہوتی ہے۔
 بیٹا (بے۔ ۱۔ ۱) مذ [۱] ولد۔ فرزند۔ لڑکا (۲) بیٹے کی طرح عزیز
 پیارا۔

بیتنا (بیت۔ ۱۔ ۱) مذ [۱] گزری ہوئی بات (۲) سرگزشت کہانی
 بیٹ (Bat) (انگ۔ ۱۔ ۱) مذ [۱] کڑھ کھیلنے کا آلہ۔
 بیٹ (۱۔ ۱) مذ [۱] پینچال۔ پرندوں کا گوہ (۲) ایک قسم کا نمک
 جس میں گڑھک ملی ہوئی ہوتی ہے۔
 بیٹا (بے۔ ۱۔ ۱) مذ [۱] ولد۔ فرزند۔ لڑکا (۲) بیٹے کی طرح عزیز
 پیارا۔

بیٹا بنانا۔ متبنی کرنا سے پاک بنانا۔
 بیٹا بن کر کھاتے ہیں باپ بن کر نہیں کھاتے (مثلاً) خدمت
 کر کے اور پھر باپ بن کر سر کوئی کھاتا ہے زبردستی کوئی کھانے نہیں دیتا
 بیٹا بیٹی بس کا اچھا مفکر (۱) اولاد وہی اچھی جو باپ کا کھانے
 بیٹا جن کر بیٹو چلے۔ سونا پہن کر ڈھک چلے (مثلاً) مال خوردت
 اور اولاد کا غرور نہ کرنا چاہیے۔

بیتوں کے متعلق (جنتی کھانا۔ انڈے سینا (۱) (شترج کے متعلق)
 مہے کا گھر برکھنا (۲) سخت لٹین ہونا۔ نیز دیکھیے بیٹھ جانا
 بیٹھو بھی (مجاورہ) چپ رہو۔ دخل نہ دو۔ الگ رہو۔
 بیٹھو اس (بیٹھو۔ ۱۔ ۱) ص [۱] بیٹھا ہوا۔ بیٹھا جن کی پیندی
 بیٹھ چینی ہو۔

بیٹری (Battery) بے۔ ٹ۔ ری [انگ۔ ۱۔ ۱] مذ [۱] برقی موٹر
 ۲) دھاتوں کا تیزابی سلسلہ (۳) توپ خانہ۔
 بیٹھا (بے۔ ٹھا) [۱] ص [۱] بیٹھا ہوا۔
 بیٹھا بیٹا کیا کرے، اس کو ٹھکی کے دھان اُس کو ٹھکی دھرے
 (مثلاً) بے کار آدمی فضول کام کرنے لگتا ہے۔
 بیٹھا جانا (مجاورہ) سخت بے چین ہونا۔ بے قرار ہونا۔
 بیٹھا کا بیٹھا رہ جانا۔ (مجاورہ) فوراً مر جانا۔ حیرت ظاہر کرنے کو
 کہتے ہیں۔ سناٹا ہوجانا۔

بیٹھنے کا سہارا (۱) (مثلاً) امن کی جگہ
 بیٹھنے سے بیکار بھلی (۱) (مثلاً) بے کار رہنے کی بجائے کچھ کرنا ہی
 بیٹھا چاہیے۔ اس میں فائدہ بہت کم ہے۔
 بیٹی (بے۔ ۱۔ ۱) مذ [۱] (۱) دختر۔ لڑکی (۲) بیٹے کی دامن۔ ہوس (۳)
 بیٹیاری لڑکی جو بیٹی کی طرح عزیز ہو۔
 بیٹی اور کڑھی کی بیل بر رہے (مثلاً) دونوں بہت جلد بڑھتی
 ہیں۔ بیٹی بہت جلد جوان ہوجاتی ہے۔
 بیٹی (دینا) (مجاورہ) بیٹی یا بیٹا۔ بیٹی کی شادی کرنا (۲) داماد بنانا
 بیٹی (روٹی) کرنا۔ (مجاورہ) کالی دینا۔

بیٹھ جانا (۱) (۱) ص [۱] بیٹھا (۲) سوار ہوجانا (۳) پسند آنا (۴) سماجنا
 (۵) جگہ کر لینا (۶) درست ہونا۔ صحیح ہونا (۷) صبر کرنا۔ سہارا لینا (۸)
 بے کار ہونا۔ موقوف ہونا (۹) دریا میں ڈوب جانا (۱۰) پھسل جانا۔
 (۱۱) دیوار محل جانا۔ بگڑنا (۱۲) ہمت ہارنا۔ استقلال چھوڑ دینا (۱۳)
 انکار کرنا۔ آئدہ نہ ہونا (۱۴) نرم ہوجانا (۱۵) ٹھکانے لگنا۔ درست
 ہونا (۱۶) جمع جانا۔ نشین ہونا (۱۷) جلوس کرنا (۱۸) گھر بیٹھا (۱۹) طاقت
 ہونا۔ کمزور ہونا۔ جیسے وہ دھول سے بیٹھ گیا (۲۰) خانہ نشین ہونا
 کام کاج چھوڑ دینا (۲۱) محل جانا۔ بیٹھتی ہوجانا (۲۲) منگنا۔ بندھ جانا
 بیٹھ رہنا۔ (۱) ص [۱] صبر کرنا (۲) آس چھوڑ دینا (۳) دیر لگانا۔

بیٹھنے کا سہارا (۱) (مثلاً) امن کی جگہ
 بیٹھنے سے بیکار بھلی (۱) (مثلاً) بے کار رہنے کی بجائے کچھ کرنا ہی
 بیٹھا چاہیے۔ اس میں فائدہ بہت کم ہے۔
 بیٹی (بے۔ ۱۔ ۱) مذ [۱] (۱) دختر۔ لڑکی (۲) بیٹے کی دامن۔ ہوس (۳)
 بیٹیاری لڑکی جو بیٹی کی طرح عزیز ہو۔
 بیٹی اور کڑھی کی بیل بر رہے (مثلاً) دونوں بہت جلد بڑھتی
 ہیں۔ بیٹی بہت جلد جوان ہوجاتی ہے۔
 بیٹی (دینا) (مجاورہ) بیٹی یا بیٹا۔ بیٹی کی شادی کرنا (۲) داماد بنانا
 بیٹی (روٹی) کرنا۔ (مجاورہ) کالی دینا۔

بیٹی کا باب (۱- صف) کمزور اور بے بس آدمی۔
 بیٹی دھن نہانا آتے بھی لڑائے جانے بھی لڑائے (مثل) بیٹی
 کی پیدا کنش اشاری اور موت پر ماں باپ عینکین ہوتے ہیں۔

بیچ چمڑا ہے میں ا مقولہ منظر عام پر۔ ایسی جگہ جہاں سب میں
 بیچ کا (۱- صف) سمجھلا۔ درمیانی۔ متوسط۔

بیچ (Badge) [انگ۔ ۱- ند] نشان۔
 بیچ (۱- ند) [انگ۔ ۱۱] نم (۲) اصل و بنیاد (۳) نطف۔

بیچ کھینٹ (محاورہ) (۱۱) عین وسط میں۔ کھینٹ کا مرکز (۲) میدان
 کے بیچ میں۔ موقع پر (۳) علائقہ کھلا۔ ڈنکے کی چوٹ۔ سب
 سے آگے (۴) میدان جنگ رزم گاہ۔ لڑائی کا میدان (۵) ضرور باضرور

بیچ (۱۱) نم (۲) اصل و بنیاد (۳) نطف۔
 بیچ (محاورہ) (۱۱) آٹھ تیرزی کرنا (۲) کسی بات کی بنیاد ڈالنا (۳)
 باعث ہونا۔ سبب ہونا۔

بیچ کی آنکھ (۱) مٹ (۲) انگشت درمیان۔ درمیانی آنکھی۔ بڑی آنکھی۔
 بیچ کی آنکھی بڑی ہوتی ہے (مثل) ہر بات میں احتدال اچھا ہونا ہے

بیچ بڑھنا (محاورہ) نغم یا نسی ہونا۔ بنیاد بڑھنا (۲) صل ہونا۔ نطف بڑھنا۔
 بیچ پھوٹنا (محاورہ) بیچ سے پودے کا ظاہر ہونا۔ بیچ کا اگنا۔

بیچ کی بات (۱- مٹ) درمیان کا معاملہ۔ باہمی گفتگو۔
 بیچ کی راس (۱- صف) درمیانی۔ اوسط۔ معمولی۔

بیچ (محاورہ) بہت بیچوں والا جس میں بکثرت بیچ ہوں۔
 بیچ دباننا (محاورہ) اگنے کی کاشت کے اس کے بیج کو چند دن
 کے لیے مٹی میں دبا کر رکھنا۔

بیچ کے کھڑے (۱- صف) انہایت تیز خاص شراب (۲) درمیان
 سے ہونے کھڑے سے۔

بیچ ڈالنا (محاورہ) نغم تیرزی کرنا۔
 بیچ کھاد (۱- ند) اون غلہ جو کاشت کاروں کو کاشت اور خوراک کے
 لیے دیا جاتا ہے۔

بیچ میں بول اکھٹنا (محاورہ) دو شخصوں کی گفتگو میں تیسرے کا دخل
 دینا یا پھر کنا

بیچ مارا جانا (محاورہ) تباہ ہونا۔ برباد ہونا۔ غارت ہونا۔ کسی چیز کو
 آگے کے لیے ناپید ہونا۔

بیچ میں پڑنا (محاورہ) ثالث ہنٹنا بیچ ہنٹنا (۲) درمیان میں پاؤں پنا (۳)
 ذمہ لینا۔ حمایت کرنا۔ کفیل ہونا۔ وکالت کرنا (۴) راستے میں آنا۔

بیچ مار دینا (محاورہ) بالکل غارت کر دینا۔ کسی چیز کو بالکل مٹا دینا۔
 بیچ ناس کرنا (محاورہ) تباہ کرنا۔ بالکل نابود کرنا۔ جڑا کھینچ دینا۔

بیچ میں سان لینا (محاورہ) اگلے دوسرے جگہ سے بیچ کو شریک بنالینا
 بیچ میں قدم ہونا (محاورہ) واسطہ ہونا۔ حاصل ہونا۔

بیچ (۱- ند) ایک ڈرافٹنی شکل کا گاندھی چہرہ جسے نیچے منہ پر
 رکھ کر دتے ہیں۔
 بیچانی (۱- مٹ) بیچنے کا موسم۔ بیچنے کی اجرت۔

بیچ والا (۱- صف) وہ شخص جو درمیان میں بیچ کر کوئی کام کر دے
 بیچوں بیچ (۱- صف) وہ وسط جس کے ٹھیک درمیان ہونے میں
 کوئی شک نہ ہو۔

بیچا (بی۔ جاک) (۱- ند) مال کی فرد۔ مال کی فہرست جس میں
 ہر چیز کا نرخ، قیمت اور میزان درج ہو۔ بیچ زیادہ مستعمل ہے۔

بیچا (۱۱) مصدر بیچنا کا صیغہ امر (۲) بکری۔
 بیچا ہے جھا (۱- ند) بیچنے والا۔ بیچنے کا ارادہ رکھنے والا فروشنہ

بیچا (۱- ند) ایک پٹھان کا گاندھی چہرہ جسے نیچے منہ پر
 رکھ کر دتے ہیں۔
 بیچا (بی۔ جی) (۱- مٹ) نیولا۔

بیچا (۱- ند) بیچنے والا۔
 بیچا (۱- مٹ) بیچنے والا۔ بیچنے والا۔ فروشنہ۔

بیچا (۱- مٹ) بیچنے والا۔ بیچنے والا۔ فروشنہ۔
 بیچا (۱- مٹ) بیچنے والا۔ بیچنے والا۔ فروشنہ۔

بیچا (۱- مٹ) بیچنے والا۔ بیچنے والا۔ فروشنہ۔
 بیچا (۱- مٹ) بیچنے والا۔ بیچنے والا۔ فروشنہ۔

بیچا (۱- مٹ) بیچنے والا۔ بیچنے والا۔ فروشنہ۔
 بیچا (۱- مٹ) بیچنے والا۔ بیچنے والا۔ فروشنہ۔

جاننے والا۔

بیدہ (۱-۵) (نذ) سوراخ۔ پھیدہ شخص جس پر جادو کا اثر ہو۔ وہ شخص بیدھا ہے۔ (صفا) [۵-صفا] وہ شخص جس پر جادو کا اثر ہو۔ وہ شخص جو کسی آفت میں مبتلا ہو۔

بیدھنا (بیدہ) (نا) [۵-بص] پھیدنا۔ سوراخ کرنا۔ بیدھی (بے۔ دھی) [۵-صفا] سوراخ کرنے والا پھید کرنے والا۔ بیئر (Beer) (بی۔ اے) [انگ۔ امٹ] ایک قسم کی مشراب جو جو سے بنائی جاتی ہے۔

بیئر (۱-۵) (نذ) [۱۱-دشمئی] عداوت، بیکندہ بغض (۲) بدلہ، معاوضہ۔ بیئر باندھنا (مجاورہ) عداوت پر تل جانا۔ خصوصیت پر آمادہ ہو۔ حید کرنا۔ مخالفت پر اٹھنا۔

بیئر باندھنا (مجاورہ) دشمنی مول لینا۔ دشمنی کرنا۔ بیئر بڑھانا (مجاورہ) عداوت بڑھانا۔ دشمنی ہونا۔ بیئر کا رشتہ (۱) (نذ) تند۔ بھاون۔ دیورانی۔ جھٹانی۔ ساس ہواور سوت سوتیلوں کا رشتہ۔

بیئر لینا، بیئر نکالنا (مجاورہ) بدلہ لینا۔ عوض لینا۔ انتقام لینا۔ بیئر (۵-صفا) [۱۱] ویر۔ بہاور۔ دلیر۔ زور آور۔ سورما [۱۲] [نذ] پہلوان (۳) بھائی برادر۔

بیئر بر۔ بیئر بل (۱) زور آور۔ پہلوان (۲) راجہ ہمیش واس کا عرفی نام جو شہنشاہ اکبر کا مشورہ درباری تھا۔ بیئر (۵-۱) (نذ) ایک قسم کا پھل۔ بیئر کے درخت کا پھل۔ بیئر کھانسی کا کھڑاں (کشل) بیئر کھانے سے اکثر کھانسی ہوتی ہے بیروں میں کھٹیلیاں ملانا (مجاورہ) گڈمڈم کر دینا۔ بی بی بنائی بات بگاڑنا۔ کسی معاملہ کو گڑبڑ کر دینا۔

بیئر (بی۔ اے) [۵-۱] (نذ) بھائی، عزیز، خورش۔ بیئر (بے۔ را) [انگ] (Bearer) کا مؤرد۔ (۱-۱) (نذ) [۱۱] خدمت گار (۲) ہونٹل کا ملازم جس کے فمے گاہوں کے آگے کھانا بہو سنے کی خدمت ہوتی ہے۔

بیئر لچ (Barrage) (بے۔ راج) [انگ] بند۔ پشتہ۔ بیئر کھیری (بے۔ را۔ کھے۔ ری) [۵-۱] (نذ) [دشمئی] بیئر اک (بے۔ راک) [۵-۱] (نذ) نفس کشی۔ فقیری۔ نرگ و بیباختاں بیئر لچائی کو مارنا

بیئر اک لینا۔ فقیری اختیار کرنا۔ بیئر اکا (بے۔ را۔ گا) [۵-۱] (نذ) چھوٹی ٹسی ٹیٹھی لکڑی جس پر بیئر لچ فقیر ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں۔

بیئر لچ (بے۔ را۔ گ) [۵-۱] (نذ) [۱۱] بیئر لچ فقیر کی بیوی (۲) جو گن فقیرنی۔ بیئر لچ (بے۔ را۔ گ) [۵-۱] (نذ) تارک الدینا۔ جوگی۔

بیئر ہٹی۔ بیئر ہونی (بیئر۔ بی۔ بی) بیئر۔ بیئر ہٹی (۱) [۱۱] ایک سرخ رنگ کا کپڑا جو برسات میں پیدا ہوتا ہے۔ اس کا تیل

بیخ اف۔ امٹ [۱۱] اصل (جڑ) بنیاد۔ نیو۔ بیخ کرکمن (اف صفا) تباہ کرنے والا۔ برباد کرنے والا۔ بیخ کنی کرنا (مجاورہ) جڑ سے اکھاڑنا۔ بنیاد کو مٹانا۔ ستیاناس کر دینا۔ نیست و نابود کر دینا۔

بیخ ورن۔ بیخ و بنیاد (اف صفا) جڑ اور بنیاد۔ بیخ ورن سے اکھاڑنا (مجاورہ) بالکل اکھاڑنا۔ جڑوں سے اکھاڑنا۔ بیید (۱-۵) (نذ) ویر۔ طیب۔

بیید (۱-۵) (نذ) [۱۱] مشافہتوں کی مقدس کتاب وید۔ بیید (۱-۵) (نذ) ایک قسم کا درخت جس کی شاخیں نہایت لمبکدار ہوتی ہیں۔

بیید بچیر (اف نذ) ارزنگا درخت۔ بیید باف (اف صفا) بید کا کام کرنے والا۔ بید کی ٹوکریاں بنانے والا۔ بیید باقی۔ بید کا کام کرنا۔ بید کی ٹوکریاں بنانے کا فن۔

بیید برگ (اف صفا) [۱۱] بید کی بیٹی (۱۲) ایک قسم کی برہمی کی انی جو بید کے پتے کی شکل کی ہوتی ہے۔ بید کی طرح کا پتہ (مجاورہ) خوف کے مارے خوف کرنا۔ پتہ بید کی طرح کرنا۔

بیید مال (اف صفا) بید کی لکڑی جس سے اسلحہ وغیرہ کا رنگ پھرتے ہیں۔ بختیاروں کو صاف کرنے اور رگڑنے کی لکڑی۔ باکی مالیدن سے یعنی رگڑنا۔ ملنا

بیید مجنون (اف نذ) ایک قسم کا درخت جس کی شاخیں جھکی رہتی ہیں شاعر لوگ اسے مجنون سے تشبیہ دیتے ہیں جس کا جسم عشق کے مارے کوڑھ بڑھک گیا تھا۔

بیید مشک (اف صفا) ایک قسم کا درخت جس کا عرق بطور دوا فرحت دل کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ بییدار (بے۔ وار) [اف صفا] بختہ کی جندہ ہوشیار چوکتا۔ جاگتا، بوا۔

بییدار بخت (اف صفا) خوش نصیب۔ اقبال مند۔ بییدار دل (اف صفا) روشن طبع۔ بییدار مغز۔ عالی دماغ۔ عقلمند۔ سمجھدار۔

بییداری (بے۔ ری) [اف صفا] ہوشیاری۔ عقل۔ سمجھ جگانے کی حالت۔ بییدارت (بے۔ وارنت) [۵-۱] (نذ) یاس جی کا بنایا ہوا وہ شاستر جس میں توجید کی بحث ہے۔ ویدانت۔

بییدارتی (بے۔ وان) [۵-۱] (نذ) وید کا علم جاننے والا۔ توجید کا مسئلہ سمجھنے والا۔

بییدارنہ (بے۔ وارن) [۵-صفا] واند [نذ] دیکھے بے کے تحت۔ بییدک (بے۔ دک) [۵-۱] (نذ) ویدک۔ طبابت۔ حکمت۔ بییدن (بے۔ دن) [۵-۱] (نذ) درد و کھ۔ تکلیف۔

بییدنا (بید۔ نا) [۵-۱] (نذ) [۱۱] دیکھے بیدن۔ بییدوا (بید۔ وا) [۵-۱] (نذ) بیدوں کا چڑھنے والا۔ بیدوں کا علم

بیش و کم اف صفت اک یا نہ زیادہ۔ کچھ نہ کچھ۔
 بیشی بے شہ (ف. ۱۰۔ مذ) جنگل بیابان۔ وہ جنگل جس میں شہ رہتا ہے
 بیشی بے شہی (ف. ۱۔ مٹ) زیادتی۔ افزونی۔ بڑھوتری۔
 بیض (ع. ۱۰۔ مذ) دستخط۔

بیضاً ابے۔ ضا (ع. صفت) روشن۔ سفید۔
 بیضادی ابے۔ ضا (وی) (ف. صفت) [۱۱] شہر بیضا گارینے والا (۲۱)
 مذ) ایک مشہور مفسر قرآن کا لقب جن کا نام عبد اللہ بن عمر تھا (۱۳)
 (مٹ) ان کی تفسیر اصل نام تفسیر بیضادی ہے۔ مشہور صرف بیضادی
 شریف ہے (۱۴) کتابی۔ شخصی (۱۵) کتابی

بیضوی ابے۔ ضی (وی) (ع. صفت) [اندھے کی مانند۔ اندھے کی
 طرح گول لبونزا۔

بیضہ ابے۔ ضہ (ع. ۱۰۔ مذ) [۱۱] اندھا (۲۱) فوط۔ خصیہ۔ جمع بیضات
 بیضہ طور و زراف۔ صفت امہ فردر دین کی پہلی تاریخ از جو تاریخ
 کی بارھویں تاریخ ہوتی ہے اپارسی اس دن جشن مناتے ہیں
 اور نئے بازی لگا کر انڈوں سے کھیلتے ہیں۔
 بیطار ابے۔ طار (ع. ۱۰۔ مذ) سلوتری۔ مویشیوں کا ڈاکٹر۔

بیع (ع. ۱۔ مٹ) بکری۔ فروخت۔
 بیع بالمراخ (ع. مٹ) با منافع بکری۔

بیع بالوقوع (ع. مٹ) وہ سودا جس میں معاد مقررہ پر روپیہ
 ادا نہ کرنے سے چیز آئی گئی ہو جائے۔ بشرطی رہن کا پورا ہونا
 بیع کا پورا ہونا۔

بیع سلطانی (ع. ف. مٹ) جو بیع بادشاہ کے حکم سے ہو۔
 بیع شرطی (ع. ف. مٹ) وہ بکری جو کسی شرط کے پورا ہونے پر
 موقوف ہو چکی بیع۔

بیع قوطع (ع. ف. مٹ) بکری بکری۔ مکمل بیع۔ فروخت کامل۔
 بیع کرنا (۱۔ مص) فروخت کرنا۔ بیچنا۔

بیع بیعادی (ع. ف. مٹ) مشروط فروخت
 بیع ناجائز (ع. ف. مٹ) خلاف قانون فروخت۔ وہ فروخت
 جس کا اختیار نہ ہو۔

بیع ناقص (ع. ف. مٹ) وہ بیع جو پوری نہ ہو اور جس کے قبضے
 کا فیصلہ ملتوی رہے۔

بیع نامیہ (ع. ف. مٹ) کسی چیز کی فروخت کی دستاویز
 بیع نامستی (ع. ف. مٹ) دکھاوے کی اور فرضی بیع۔

بیع و شری (ع. ف. مٹ) خرید و فروخت۔ لینا اور بیچنا۔
 بیعاً نہ ابے۔ عانہ (ف. ۱۰۔ مذ) آسانی کی وہ رقم جو کسی سودے کا
 پکا کر کے ساری قیمت ادا کرنے سے پہلے بائع کو دی جلتے
 اور حساب بیباق کرتے وقت وضع کر لی جاتے۔

بیعت ابے۔ عنت (ع. ۱۰۔ مٹ) [۱۱] اطاعت کا عہد (۲) مرد دنیا
 بیعت کرنا (۱۔ مص) کسی پر کامرید ہونا۔

بیعت لینا (۱۔ مص) اطاعت اور فرمانبرداری کا عہد یہاں لینا۔

بیس (۱۰۔ صفت) دس اور دس۔ بست (۲۰)
 بیس بسوئے (۱۰۔ مذ) [۱۱] ایک بیکھ (۲) سارا گاؤں۔ کل تمام۔ پورا
 (۳) غالباً۔ یقیناً۔

بیس راہ لگا دینا (محاورہ) مختلف کاموں میں خرچ کر ڈالنا۔
 بیس ہنڈیوں کا مزہ چکھنا (محاورہ) بہت جگہ نوکری کرنا (۲)
 ناجائز تعلقات رکھنا۔ بہت عورتوں سے شادی کرنا۔

بیسانی (سا) (س) [۱۰۔ مذ] ایک قسم کا کتاب جس کے بیس ناخن ہوتے ہیں
 بیس سو برس کی عمر ہوا (۱۰۔ مذ) ایک سو بیس سال کی عمر ہو بہت
 لمبی عمر ہو۔

بیساکھ ابے۔ ساکھ (۱۰۔ مذ) سمت بکری کا مہینہ جو ۳ اپریل
 سے شروع ہوتا ہے۔

بیساکھی ابے۔ ساکھی (۱۰۔ مٹ) وہ مشہور تنوار جو بیساکھ
 کی پہلی تاریخ کو منایا جاتا ہے۔

بیساکڑو ابے۔ ساکڑو (۱۰۔ صفت) کابل۔ نکلا۔
 بیستوں ابے۔ س۔ توئی (ف. ۱۰۔ مذ) ایک مشہور پہاڑ کا نام۔
 جسے نزلانے کھودا تھا۔

بیسیر ابے۔ سیر (۱۰۔ مٹ) ناک میں سینے کی پھولی ٹنڈ۔ تختی۔
 بیسن ابے۔ سن (۱۰۔ مذ) چنے کی دال کا آٹا۔

بیسنی ابے۔ سن (۱۰۔ صفت) [۱۰۔ مٹ] بیسن کی سنی ہوئی۔
 بیسنی روٹی۔ بیسن کی روٹی چنے کے آٹے کی روٹی اور مسالے دار
 روٹی۔ اسپن استی روٹی۔

بیسوا ابے۔ سوا (۱۰۔ مٹ) رنڈی۔ فاحشہ۔ قہ۔
 بیسواستی نہ کا گاجی (مثیل) رنڈی اور کوئی نیک نہیں ہو سکتے۔

بیسواں (بیس) واں (۱۰۔ مذ) [۱۱] کسی کے مرنے کے بسویں دن
 کھانا پورا کر بطور خیرات مسکینوں کو کھلانے کی رسم (۲) [صفت]
 بیس عدد والا (۳)۔

بیسوں (۱۰۔ عدد) بیس کے بیس۔ تمام (۲) بہت سے۔
 بیسوں بسوئے (۱۰۔ مذ) [۱۱] تمام کا تمام گاؤں (۲) یقیناً۔ بیشک
 بیسی (بی) سی (۱۰۔ مذ) [۱۱] کوڑی (۲) غلہ ناپنے کا ایک پیمانہ (۳)

(صفت) بیس سال کی۔
 بیسی کھسی ساٹھا یاٹھا (مث) عورت بیس سال کی عمر میں کمزور
 ہو جاتی ہے اور مرد ساٹھ سال کی عمر تک جوان رہتا ہے۔

بیش (ف. صفت) زیادہ۔ افزوں۔
 بیش از بیش (ف. صفت) بہت زیادہ۔ زیادہ سے زیادہ۔ غایت درجہ
 بیش باد (ع. زیادہ ہو۔ اللہ زیادہ کرے۔ بڑھتی دولت اور بڑھتے۔

بیش بہا (ف. صفت) بھاری قیمت کا۔ قیمتی۔ بڑھیا۔
 بیش تزار (ف. صفت) اکثر زیادہ تر (۲) بار بار۔

بیش قرار (ف. صفت) معقول۔
 بیش قیمت (ف. صفت) بہت قیمت والا۔ قیمتی۔ بیش بہا (۲)

بیش قیمت (ف. صفت) بہت قیمت والا۔ قیمتی۔ بیش بہا (۲)
 نفیس۔ عمدہ۔

بیکاری (بی۔ کا) [۵-صفت] (۱) طیرھا زخمی
 بی کا بی (Bachelor of Commerce) کا محفف [انگ صفت]
 وہ شخص جس نے کامرس میں بی۔ اے کیا ہو۔ فاضل تجارت۔
 بیگمر (Baker) بے کر [انگ]۔ مذ نانا بنانی۔ روٹی پکانے والا۔
 بسکٹ اور ڈیل روٹی بنانے والا۔
 بیگمری (Bakery) (بے۔ ک۔ ری) [انگ]۔ مٹھ [ڈیل روٹی]
 بسکٹ وغیرہ بنانے کا تنور یا کارخانہ۔
 بسکٹ بھرے۔ گٹھ [۵-۱-۱۔ مذ] ہشت جنت۔
 بسکٹ بستی (۵-صفت) مرحوم مدفور جنت آشیان۔
 بیگ ات ۱۰۔ مذ صاحب امیر سردار مغلوں کا خطاب
 بیگ (Bag) [انگ]۔ مذ بھینلا۔ بویا۔
 بیگاری بے۔ گار [انگ]۔ مٹھ [اجرت کے بغیر کام لینا۔ جبرا کسی
 کو کام کے لیے پکڑنا وہ کام جو بغیر مزدوری بے کسی سے لیا جائے۔
 بیگار ٹالنا (محاورہ) بے ولی اور کم تو جی سے کوئی کام کرنا۔
 بیگار کے لیے پکڑنا جانا (محاورہ) بغیر اجرت کام کرنے کے لیے کسی
 کو مجبور کیا جانا۔
 بیگاری (بے۔ گاری) [انگ]۔ مذ [۱۱] بے گار میں کام کرنے والا۔
 [۱۲] بے ولی سے کام کرنے والا۔
 بیگانگی (بے۔ گان۔ کی) [انگ]۔ مٹھ [غیریت۔ اجنبیت بے تعلق
 بیگانہ۔ بے۔ گانہ] [انگ]۔ صفت [غیر بہانا۔ اجنبی۔
 بیگانہ خوراف (صفت) جس کی سرشت میں میل جل نہ ہو اکھڑیوں
 بیگانہ سر پینسری کی جگہ بیگانہ سر کدو کے برابر [مثلاً] جب کوئی
 دوسرے کے لیے کسی قسم کا تباہی نہ کرے تو دونوں طرح کہتے ہیں۔ منشا یہ
 ہوتا ہے کہ اس قسم کا اظہار نہیں۔
 بیگانہ وار۔ بیگانہ دشمن [انگ]۔ صفت [اجنبی کی طرح۔
 بیگانہ بر دے آزاد کرتے ہیں [مثلاً] برائے غلام چھوڑ کر مفت
 میں ثواب کھاتے ہیں۔ غیر کے مال پر فیاض بنتے ہیں۔
 بیگانگی (بے۔ گانہ) [انگ]۔ صفت [بیگانہ کی تائید۔
 بیگانگی (بے۔ گانہ) [انگ]۔ مٹھ [سیک کی تائید۔ خاقون۔ بانو جمع بیگمت
 بیگمتی (بے۔ گانہ) [انگ]۔ مذ [۱۱] ایک قسم کے نہایت عمدہ اور
 نفیس چاول [۱۲] ایک قسم کا کافوری عملہ پان۔
 بیگ ابی کر [انگ]۔ مذ [۱۱] زمین کی ایک مقدار۔ چار کنال یا ۸۰ مرے۔
 بیگ (۱۱-۱۱) [انگ]۔ مذ [۱۱] نماز [۱۲] بیزنٹ۔ [۱۳] حق۔ گاٹھری۔
 بیل نہ کوو کوو کی گون۔ یہ تماشہ دیکھے گون [مثلاً] وہاں لواتے
 ہیں جہاں کوئی امید کے خلاف کام کرے یا دخل دے معقولات
 دے جس کو کوونا با شکایت کرنا چاہیے۔ وہ چپے اور جس کو شکایت
 نہ کرنا چاہیے۔ وہ زلمی شکایت کہنے کے
 بیل سرکاری یا روٹی کی طرح کاری [مثلاً] کسی کے مال کو کوئی اور
 استعمال کرے جب کوئی چیز کسی کو مفت مل جائے اس وقت
 کہتے ہیں۔

بیل (۵-۱) مٹھ [۱۱] وہ پیدا جس کی شاخیں زمین پر پھیلتی ہیں یا کسی
 سہارے سے اوپر جڑ دھتی ہیں، [۱۲] فیتہ یا زری کا کنارہ [۱۳] وہ گلی
 بوسے جو کپڑوں پر کاٹتے ہیں [۱۴] شمار تصدق۔ پچھاور۔ صدقہ (۵)
 وہ انعام جو ارباب نشاط کو دیا جائے [۱۵] نافذ کھینے کا بانس۔ چھوڑا [۱۶]
 ایک درخت اور اس کے پھل کا نام [۱۷] آل عیال۔ نسل۔
 بیل بٹا [۱۸]۔ مذ [۱۹] شمار۔ پچھاور۔ وہ انعام جو ارباب نشاط کو دیا جائے
 بیل بڑھنا (محاورہ) درخت یا پودے وغیرہ کی بیل کا پھیلنا [۲۰] بال
 بچے زیادہ ہونا۔ [۲۱] قدر بڑھنا۔
 بیل بوٹا [۱]۔ مذ [۲] نقش و نگار۔
 بیل دار [۱]۔ صفت [وہ چیز جس میں بیل یا مینس لگی ہو۔
 بیل منڈھے پر بڑھنا (محاورہ) شادی کا وقت [۲] امراد کو پہنچنا۔
 کامیاب ہونا۔
 بیل اف [۱]۔ مذ [۲] زمین کھودنے کا اوزار۔ بیلچہ۔
 بیلدار۔ وہ شخص جس کا پیشہ زمین کھودنا ہو۔ شکر نہر کے کارندے
 جو کھدے وغیرہ بھرتے ہیں۔
 بیل (بے۔ لا) [انگ]۔ مذ [۱] بڑا کٹور [۲] ایک قسم کا ہا جا جو ساری کی
 طرح ہوتا ہے [۳] وہ جیل جو دریا کے کنارے واقع ہو [۴] وہ نقدی
 جو بیاہ شادیوں کے موقع پر بطور خیرات تقسیم کی جانے [۵]
 یا سنہن چینی کی قسم کا پودا۔
 بیل بٹنا۔ خیرات تقسیم کرنا۔ نقدی بٹنا۔
 بیٹمٹ (Ballot) [انگ]۔ مذ [۱] قمر اندازی۔ پوشیدہ
 راستہ دہندگی۔
 بیٹمٹ بکس (Ballot Box) ووٹ کی پرچیاں جمع کرنا کھندونی
 بیٹمٹ (بیل۔ جے) [انگ]۔ مذ [۱] چھوٹی کدال چھوٹا پھانڈا
 بیٹمٹ (بے۔ گانہ) [انگ]۔ مذ [۱] تیر کی اتنی۔
 بیٹین (بے۔ گانہ) [انگ]۔ مذ [۱] لکڑی کا وہ مدور اوزار جس سے
 روٹی یا پوری کو بڑھانے میں [۲] پتھر کا وہ گول ڈھول نما اوزار
 جس سے سڑک ہموار کرتے ہیں یا چونہ وغیرہ پینتے ہیں۔
 بیلنا (بیل۔ نا) [انگ]۔ مذ [۱] بیلن سے روٹی وغیرہ کو پھیلانا [۲]
 روٹی سے بننے وغیرہ عیلہ کرنا [۳] [مذ] روٹی سے بننے عیلہ
 کرنے کا آلہ۔ بڑا بیلن [۴] گنے کا رس نکالنے کا کھوڑ۔
 بیلنس (Balance) بے۔ لسن [انگ]۔ مذ [۱] باقی۔ فاضلات
 بیلنس شیت (Balance Sheet) چٹھا۔ داخل باقی۔ روٹی باقی
 بیلون (Balloon) (بے۔ گون) [انگ]۔ مذ [۱] غبارہ۔
 بیلی (بے۔ لی) [انگ]۔ مذ [۱] گھبان۔ محافظ۔ مددگار۔ ساتھی۔
 بیٹم اف [۱]۔ مذ [۲] خورق خط۔ اندیشہ۔ ڈر۔
 بیٹا (بی۔ ما) [انگ]۔ مذ [۱] دیکھے بھیر۔
 بیٹار (بی۔ مار) [انگ]۔ صفت [۱] مزین۔ روٹی [۲] عاشق جمع بیارل
 بیٹار (بی۔ سی) [انگ]۔ صفت [۱] عیادت۔ بیار کا حال پوچھنا۔ بیار کی خبر لینا۔

بینڈا (بیس۔ ڈی) [ہ۔ صف۔ ۱۱] ترچھا۔ اڑا۔ ٹیڑھا (۲) سخت۔ مشکل
 بے ڈھب (۳) ناشائستہ۔ اچل۔ اکھر (۴) [مذ] وہ لکڑی جو دروازے
 کے پیچھے ترچھی لگی جاتی ہے تاکہ دروازہ کھل نہ سکے۔
بینڈی (بیس۔ ڈی) [ہ۔ ۱۔ مذ] ایک کیرا جھرسات میں دہشتوں پر طپس
 نہیں کرتا ہے۔

بینڈی (بیس۔ ڈی) [ہ۔ صف] بینڈا کی تائیت۔ ٹیڑھی۔ ترچھی
بینڈی چال (ہ۔ مٹ) اٹیڑھی چال۔ ترچھی چال۔ بڑی وضع۔
بینڈی سنانا (محاورہ) سخت جواب دینا۔

بینڈی گھومری (۱۔ صف) [مجازاً] کم فہم۔ جاہل۔ اکھر۔
بینڈی (بیس۔ ڈی) [ہ۔ ۱۔ مٹ] (۱) بالوں کا جوڑا (۲) بالوں کی چھی۔
بینڈیا (بیس۔ ڈی) [ہ۔ ۱۔ مذ] تیسرا یا پانچواں بیل جو جوت کے آگے
 سماتا دینے کے لیے جوڑا جاتا ہے۔

بینش (بی۔ نش) [ف۔ ۲۔ مٹ] (۱) نظر نگاہ۔ دیکھنے کی طاقت (۲)
 دانائی۔

بینک (Bank) [انگ۔ ۱۔ مذ] لین دین کی کوٹھی۔ ساہوکارا
بینک ریٹ (Bank Rate) شرح سود۔ پٹا۔

بینک کار (۱) صرف۔ مہاجن۔ ساہوکار (۲) بینک کا منتظم انگریزی
 بینکر سے اردو بنایا گیا ہے۔

بینک کرڈٹ (Bank Credit) [انگ۔ ۱۔ مذ] قرض ساکھ۔ بینک سے
 روہ سمجھوتا جس کی رو سے ضمانت دینے پر قرض لیا جاسکے۔

بینک نوٹ (Bank Note) [انگ۔ ۱۔ مذ] بینک کا کاغذی سکہ۔ نوٹ
بینکر (Banker) [انگ۔ ۱۔ مذ] دیکھیے بینک کار

بینک (۱۔ ۵۔ مذ) [انگ۔ ۱۔ مذ] دیکھیے بینک کار
بینکن (بیس۔ ڈی) [ہ۔ ۱۔ مذ] ایک قسم کی ترکاری۔

بیننا (بیس۔ ڈی) [ہ۔ ۱۔ صف] بیٹھنا۔ بیٹھنا۔ بیٹھنا۔ بیٹھنا۔ بیٹھنا۔
بینندہ (بی۔ ن۔ ۱۔ صف) [ہ۔ ۱۔ صف] دیکھنے والا۔ دانا شخص۔

بیٹہ (بی۔ ن۔ ۱۔ صف) [ہ۔ ۱۔ صف] دیکھنے والا۔ دانا شخص۔
بیٹہ (بی۔ ن۔ ۱۔ صف) [ہ۔ ۱۔ صف] دیکھنے والا۔ دانا شخص۔

بیٹھنا (بیس۔ ڈی) [ہ۔ ۱۔ صف] بیٹھنا۔ بیٹھنا۔ بیٹھنا۔ بیٹھنا۔
بیٹھنا (بیس۔ ڈی) [ہ۔ ۱۔ صف] بیٹھنا۔ بیٹھنا۔ بیٹھنا۔ بیٹھنا۔

بیٹھنا (بیس۔ ڈی) [ہ۔ ۱۔ صف] بیٹھنا۔ بیٹھنا۔ بیٹھنا۔ بیٹھنا۔
بیٹھنا (بیس۔ ڈی) [ہ۔ ۱۔ صف] بیٹھنا۔ بیٹھنا۔ بیٹھنا۔ بیٹھنا۔

بیٹھنا (بیس۔ ڈی) [ہ۔ ۱۔ صف] بیٹھنا۔ بیٹھنا۔ بیٹھنا۔ بیٹھنا۔
بیٹھنا (بیس۔ ڈی) [ہ۔ ۱۔ صف] بیٹھنا۔ بیٹھنا۔ بیٹھنا۔ بیٹھنا۔

بیٹھنا (بیس۔ ڈی) [ہ۔ ۱۔ صف] بیٹھنا۔ بیٹھنا۔ بیٹھنا۔ بیٹھنا۔
بیٹھنا (بیس۔ ڈی) [ہ۔ ۱۔ صف] بیٹھنا۔ بیٹھنا۔ بیٹھنا۔ بیٹھنا۔

بیٹھنا (بیس۔ ڈی) [ہ۔ ۱۔ صف] بیٹھنا۔ بیٹھنا۔ بیٹھنا۔ بیٹھنا۔
بیٹھنا (بیس۔ ڈی) [ہ۔ ۱۔ صف] بیٹھنا۔ بیٹھنا۔ بیٹھنا۔ بیٹھنا۔

بیٹھنا (بیس۔ ڈی) [ہ۔ ۱۔ صف] بیٹھنا۔ بیٹھنا۔ بیٹھنا۔ بیٹھنا۔
بیٹھنا (بیس۔ ڈی) [ہ۔ ۱۔ صف] بیٹھنا۔ بیٹھنا۔ بیٹھنا۔ بیٹھنا۔

بیمار (بی۔ م۔ ۱۔ صف) [ہ۔ ۱۔ صف] بیمار۔ بیمار۔ بیمار۔ بیمار۔
بیمار (بی۔ م۔ ۱۔ صف) [ہ۔ ۱۔ صف] بیمار۔ بیمار۔ بیمار۔ بیمار۔

بیمار (بی۔ م۔ ۱۔ صف) [ہ۔ ۱۔ صف] بیمار۔ بیمار۔ بیمار۔ بیمار۔
بیمار (بی۔ م۔ ۱۔ صف) [ہ۔ ۱۔ صف] بیمار۔ بیمار۔ بیمار۔ بیمار۔

بیمار (بی۔ م۔ ۱۔ صف) [ہ۔ ۱۔ صف] بیمار۔ بیمار۔ بیمار۔ بیمار۔
بیمار (بی۔ م۔ ۱۔ صف) [ہ۔ ۱۔ صف] بیمار۔ بیمار۔ بیمار۔ بیمار۔

بیمار (بی۔ م۔ ۱۔ صف) [ہ۔ ۱۔ صف] بیمار۔ بیمار۔ بیمار۔ بیمار۔
بیمار (بی۔ م۔ ۱۔ صف) [ہ۔ ۱۔ صف] بیمار۔ بیمار۔ بیمار۔ بیمار۔

بیمار (بی۔ م۔ ۱۔ صف) [ہ۔ ۱۔ صف] بیمار۔ بیمار۔ بیمار۔ بیمار۔
بیمار (بی۔ م۔ ۱۔ صف) [ہ۔ ۱۔ صف] بیمار۔ بیمار۔ بیمار۔ بیمار۔

بیمار (بی۔ م۔ ۱۔ صف) [ہ۔ ۱۔ صف] بیمار۔ بیمار۔ بیمار۔ بیمار۔
بیمار (بی۔ م۔ ۱۔ صف) [ہ۔ ۱۔ صف] بیمار۔ بیمار۔ بیمار۔ بیمار۔

بیمار (بی۔ م۔ ۱۔ صف) [ہ۔ ۱۔ صف] بیمار۔ بیمار۔ بیمار۔ بیمار۔
بیمار (بی۔ م۔ ۱۔ صف) [ہ۔ ۱۔ صف] بیمار۔ بیمار۔ بیمار۔ بیمار۔

بیمار (بی۔ م۔ ۱۔ صف) [ہ۔ ۱۔ صف] بیمار۔ بیمار۔ بیمار۔ بیمار۔
بیمار (بی۔ م۔ ۱۔ صف) [ہ۔ ۱۔ صف] بیمار۔ بیمار۔ بیمار۔ بیمار۔

بیمار (بی۔ م۔ ۱۔ صف) [ہ۔ ۱۔ صف] بیمار۔ بیمار۔ بیمار۔ بیمار۔
بیمار (بی۔ م۔ ۱۔ صف) [ہ۔ ۱۔ صف] بیمار۔ بیمار۔ بیمار۔ بیمار۔

بیمار (بی۔ م۔ ۱۔ صف) [ہ۔ ۱۔ صف] بیمار۔ بیمار۔ بیمار۔ بیمار۔
بیمار (بی۔ م۔ ۱۔ صف) [ہ۔ ۱۔ صف] بیمار۔ بیمار۔ بیمار۔ بیمار۔

بیمار (بی۔ م۔ ۱۔ صف) [ہ۔ ۱۔ صف] بیمار۔ بیمار۔ بیمار۔ بیمار۔
بیمار (بی۔ م۔ ۱۔ صف) [ہ۔ ۱۔ صف] بیمار۔ بیمار۔ بیمار۔ بیمار۔

بیمار (بی۔ م۔ ۱۔ صف) [ہ۔ ۱۔ صف] بیمار۔ بیمار۔ بیمار۔ بیمار۔
بیمار (بی۔ م۔ ۱۔ صف) [ہ۔ ۱۔ صف] بیمار۔ بیمار۔ بیمار۔ بیمار۔

بیمار (بی۔ م۔ ۱۔ صف) [ہ۔ ۱۔ صف] بیمار۔ بیمار۔ بیمار۔ بیمار۔
بیمار (بی۔ م۔ ۱۔ صف) [ہ۔ ۱۔ صف] بیمار۔ بیمار۔ بیمار۔ بیمار۔

بیوہ فی البص۔ ود بیوہ جو اپنے خاوند کی جائداد پر قابض ہو۔ بیوی بیویاں (ب-یو۔ ہا۔ ہ) [۱-۵-۱۱] بیویاں تجارت۔ بیچ سوداگری بین دین (۲) کام کاج۔ پیشہ (۳) معاملہ۔ واسطہ۔ تعلق (۴) قاعدہ دستور۔ طریقہ۔ ڈھنگ (۵) خطہ کتابت۔ نامہ و پیام (۶) بیہ شادی۔ تسکین۔ مناسکت۔

بیویاں کی بات۔ معاملے کی بات۔ کاروباری بات۔ دستور کی بات اصول کی بات۔ قاعدے کی بات۔

بیوی (بی۔ وی) [ا۔ ا۔ ا۔] [۱-۱-۱] ازدواجی گھر کی مالکہ عورت یا کن بیوی بیوی عید آئی چل دوڑ گئے اپنی ذال تکیلے کام (مثل) دنیا کی عیش و عشرت سے غریبوں کو کیا سر دکار۔

بیوی جی بیوی جی چاول گل گئے، ذکر گنیا مردار و سے دن طل گئے (مثل) عورتیں اس عورت کے متعلق کہتی ہیں جو خوشحالی نصیب ہونے پر اپنا پہلا غریبی کا زمانہ بھول جاتی ہیں۔

بیوی کا دانہ ٹھلنے والا (ب-یو۔ ہا۔ ہ) [۱-۱-۱] بیویوں پر بڑے والا دیوت۔ محتاج زن۔ جو رو کی کمائی کھانے والا۔ سسرال میں بڑا رہنے والا۔

بیوی کا غلام (ب-یو۔ ہا۔ ہ) [۱-۱-۱] مرید عورت کے اشاروں پر چلنے والا۔ بیوی کو باندی کہہ سکتے دے۔ باندی کو باندی کہہ سکتے (مثل) شریف کو کہیں کہہ سکتے دیتا ہے۔ کیے کو کہیں کہنا (ب-یو۔ ہا۔ ہ) بیوی نیک بخت، دم مڑی کی وال میں وقت آتش نیک عورت کفایت شعاری کرتی ہے۔

بیوی وارے باندی کھائے، گھر کی بلا باہر تہ جائے (ایشل) دیکھیے بی بی وارے۔

بیہ (ب-یو۔ ہا۔ ہ) [۱-۱-۱] سوراخ (۲) کان یا ناک کا سوراخ۔ سہیڑا۔ بے (ب-یو۔ ہا۔ ہ) [۱-۱-۱] صاف۔ وامٹ (۱) ناہموار زمین (۲) جنگل چرگا

بیویاں (ب-یو۔ ہا۔ ہ) [۱-۵-۱۱] بیویاں تجارت۔ بین دین سوداگری۔ بیچ بیویاں (ب-یو۔ ہا۔ ہ) [۱-۵-۱۱] بیویاں تجارت۔ بیچ سوداگری۔ بیچا۔ بیوت (ب-یو۔ ہا۔ ہ) [۱-۵-۱۱] بیوت [بیت کی جمع۔ مکانات۔ بیوتات (ب-یو۔ ہا۔ ہ) [۱-۵-۱۱] بیوت کی جمع اور بیت کی جمع الجمع۔

بیویاں (ب-یو۔ ہا۔ ہ) [۱-۵-۱۱] بیویاں تجارت۔ بین دین سوداگری۔ بیچ بیویاں (ب-یو۔ ہا۔ ہ) [۱-۵-۱۱] بیویاں تجارت۔ بیچ سوداگری۔ بیچا۔ بیوت (ب-یو۔ ہا۔ ہ) [۱-۵-۱۱] بیوت [بیت کی جمع۔ مکانات۔ بیوتات (ب-یو۔ ہا۔ ہ) [۱-۵-۱۱] بیوت کی جمع اور بیت کی جمع الجمع۔

بیویاں (ب-یو۔ ہا۔ ہ) [۱-۵-۱۱] بیویاں تجارت۔ بین دین سوداگری۔ بیچ بیویاں (ب-یو۔ ہا۔ ہ) [۱-۵-۱۱] بیویاں تجارت۔ بیچ سوداگری۔ بیچا۔ بیوت (ب-یو۔ ہا۔ ہ) [۱-۵-۱۱] بیوت [بیت کی جمع۔ مکانات۔ بیوتات (ب-یو۔ ہا۔ ہ) [۱-۵-۱۱] بیوت کی جمع اور بیت کی جمع الجمع۔

بیویاں (ب-یو۔ ہا۔ ہ) [۱-۵-۱۱] بیویاں تجارت۔ بین دین سوداگری۔ بیچ بیویاں (ب-یو۔ ہا۔ ہ) [۱-۵-۱۱] بیویاں تجارت۔ بیچ سوداگری۔ بیچا۔ بیوت (ب-یو۔ ہا۔ ہ) [۱-۵-۱۱] بیوت [بیت کی جمع۔ مکانات۔ بیوتات (ب-یو۔ ہا۔ ہ) [۱-۵-۱۱] بیوت کی جمع اور بیت کی جمع الجمع۔

بیویاں (ب-یو۔ ہا۔ ہ) [۱-۵-۱۱] بیویاں تجارت۔ بین دین سوداگری۔ بیچ بیویاں (ب-یو۔ ہا۔ ہ) [۱-۵-۱۱] بیویاں تجارت۔ بیچ سوداگری۔ بیچا۔ بیوت (ب-یو۔ ہا۔ ہ) [۱-۵-۱۱] بیوت [بیت کی جمع۔ مکانات۔ بیوتات (ب-یو۔ ہا۔ ہ) [۱-۵-۱۱] بیوت کی جمع اور بیت کی جمع الجمع۔

بیویاں (ب-یو۔ ہا۔ ہ) [۱-۵-۱۱] بیویاں تجارت۔ بین دین سوداگری۔ بیچ بیویاں (ب-یو۔ ہا۔ ہ) [۱-۵-۱۱] بیویاں تجارت۔ بیچ سوداگری۔ بیچا۔ بیوت (ب-یو۔ ہا۔ ہ) [۱-۵-۱۱] بیوت [بیت کی جمع۔ مکانات۔ بیوتات (ب-یو۔ ہا۔ ہ) [۱-۵-۱۱] بیوت کی جمع اور بیت کی جمع الجمع۔

بیویاں (ب-یو۔ ہا۔ ہ) [۱-۵-۱۱] بیویاں تجارت۔ بین دین سوداگری۔ بیچ بیویاں (ب-یو۔ ہا۔ ہ) [۱-۵-۱۱] بیویاں تجارت۔ بیچ سوداگری۔ بیچا۔ بیوت (ب-یو۔ ہا۔ ہ) [۱-۵-۱۱] بیوت [بیت کی جمع۔ مکانات۔ بیوتات (ب-یو۔ ہا۔ ہ) [۱-۵-۱۱] بیوت کی جمع اور بیت کی جمع الجمع۔

بیویاں (ب-یو۔ ہا۔ ہ) [۱-۵-۱۱] بیویاں تجارت۔ بین دین سوداگری۔ بیچ بیویاں (ب-یو۔ ہا۔ ہ) [۱-۵-۱۱] بیویاں تجارت۔ بیچ سوداگری۔ بیچا۔ بیوت (ب-یو۔ ہا۔ ہ) [۱-۵-۱۱] بیوت [بیت کی جمع۔ مکانات۔ بیوتات (ب-یو۔ ہا۔ ہ) [۱-۵-۱۱] بیوت کی جمع اور بیت کی جمع الجمع۔

پ

پ۔ (پے) اردو اور فارسی کا تیسرا ہندی کا کیسواں حرف۔ اجد کے حساب میں اس کے تین عدد مقرر ہیں۔ بعض ہندی الفاظ کے بعد آئے تو مصدر کے معنی دیتا ہے جیسے ٹاپ۔ فارسی میں یہ کئی حرفوں سے بدل جاتا ہے جیسے تب۔ تب۔ سیند۔ سپید۔

پ

پاؤں (ن۔ ۱۔ مذ) (۱) پاؤں۔ قدم۔ پیر (۲) نیچے۔ زیریں۔ تخت (۳) پائیداری۔ قدرت۔ قوت۔ مضبوطی۔ استقلال۔ ٹھیراؤ (۴) بیخ۔ بنیاد (۵) گرامر میں بطور لاحقہ جیسے موٹا پا۔ ٹھہرا پا۔ یا دیر پا (۶) پاؤں کا مختلف جیسے آدھ پا۔
 پافرازی۔ جوتی۔ پاپوش۔
 پافنا۔ (ن۔ صفت) بے کس۔ بے سہارا۔ عاجز۔ جمع؛ اٹنا دگان۔
 پافشار۔ کھڑاؤں۔
 پافنا۔ (ن۔ مذ) روپے، ٹاٹ، برٹیا، موج، کھلڑا جو دروازے کے آگے ہوتے صاف کرنے کے لیے دکھاتے ہیں گاڑی میں پیر کرنے کی بڑھی رکھ دیتے ہیں۔
 پاؤں (۱) پاؤں میں بیڑی۔ پاؤں میں زنجیر۔ پار زنجیر (۲) مقصد۔ مجوس (۳) مجبور۔ محتاج (۴) ملازم۔ نوکر۔ خدمت گزار (۵) بیاد ہوا۔
 پادامن۔ (پا۔ بہ۔ دامن) (ن۔ صفت) دامن میں پاؤں سیٹھے ہوئے گوشہ نشین۔ جس نے چلنا پھرنا چھوڑ دیا ہو۔
 پادست۔ (پا۔ بہ۔ دست) دست بدست و گرے۔ (ن۔ محاورہ) (۱) پاؤں ایک کے ہاتھ میں۔ ہاتھ دوسرے کے ہاتھ میں (۲) کشاں کشاں۔ (۳) جبر سے۔
 پارکاب۔ (ن۔ صفت) جانے پر آمادہ۔ چلنے پر مستعد۔
 پارہرہسنہ۔ (ن۔ صفت) ننگے پاؤں۔
 پارہرہنجیر۔ (پا۔ بہ۔ زنجیر) (ن۔ صفت) وہ جس کے پاؤں میں زنجیر پڑی ہوئی ہو۔
 پالست۔ (پا۔ بہ۔ پالستہ) (ن۔ صفت) مستحکم۔ مضبوط (۲) گرفتار۔
 پانگل۔ (پا۔ بہ۔ گل) (ن۔ صفت) (۱) کچھوں میں پاؤں۔ جس کے پاؤں مٹی میں ہوں (۲) قیدی۔ بے بس۔ حیران۔ بند۔
 پابند۔ (پا۔ بہ۔ بند) (۱) عادی۔ نوکر (۲) نوکر۔ ملازم۔ محکوم (۳) ماتحت۔ مطیع (۴) گرفتار۔ رکا ہوا۔ قیدی (۵) قائم۔ ٹھیرا ہوا۔ مستقل۔ مضبوط (۶) بیڑی۔ زنجیر۔ پھانسی (۷) وہ رستی جس سے گھوڑے کے پیچھے پاؤں باندھتے ہیں (۸) کسی بات پر قائم رہنے والا۔
 پابند کرنا۔ (۱) محاورہ (۲) مقصد کرنا (۳) روکنا (۴) نوکر رکھنا (۵) شادی کرنا (۶) روک دینا (۷) کسی کام کا دستہ دار بنانا۔
 پابندی۔ (ن۔ صفت) (۱) روک رکھنا (۲) بندش (۳) ملازمت۔ نوکری

ستابت۔ غلامی۔ فرماں برداری۔ مناجہ (۲) قید۔ گرفتاری (۵) استقلال۔ قیام۔ استحکام (۶) بیڑی۔ جولاں (۷) لحاظ۔ خیال۔ دھیان (۸) عادت۔ نحو۔
 پاپوس۔ (ن۔ صفت) (۱) قدم چومنے والا (۲) پاؤں پڑنے والا۔ قدم برس۔ (۳) چھلنے والا (۴) تسلیم کرنے والا (۵) خوشامدی۔
 پاپوسی۔ (ن۔ ۱۔ مٹ) (۱) پاؤں چومنا۔ قدم لینا۔ قدم برس ہونا (۲) چھلنا۔ تسلیم کرنا (۳) بڑوں کی ملاقات (۴) خاطر۔ تواضع۔ تعظیم۔
 باب۔ (ن۔ مذ) گناہ۔
 پاپ کا پھیل۔ گناہ کا نتیجہ (۲) منوس۔ پشگون۔
 پاپ کی ناؤ آج نہیں توکل، کل نہیں تو پر سوں ڈوبے گی۔
 (۱) قتل (۲) غلام کو ضرور سزا ملتی ہے۔
 پاپیوں کو مٹانے کو پاپ مہا بلی۔ (۱) مٹا۔ گناہگار اپنے گناہوں کی وجہ ہی سے تباہ ہوتا ہے۔
 پاپوس۔ (ن۔ مٹ)۔ پونا۔ پیزار۔ گفتش (تخیر سے)۔ ایزاری کا اٹھار۔
 پاپوش نہ مارنا۔ (۱) محاورہ (۲) جوتا بھی نہ مارنا۔ نہایت بے وقعت سمجھنا۔
 پاپوش پر مارنا۔ (۱) محاورہ (۲) ذلیل اور حقیر سمجھنا۔ بے عزت جانا (۳) ذلیل کرنا (۴) ٹھکانا (۵) خاطر میں نہ لانا۔ پرواہ نہ کرنا۔
 پاپوش جاتے۔ (محاورہ) (گلدستہ)۔ کچھ خبر نہیں۔ پتہ نہیں۔
 پاپوش سے۔ پاپوش کی نوک سے۔ بلا سے۔ جوتی سے۔ کچھ پرواہ نہیں۔
 پاپوش کاری۔ (ن۔ ۱۔ مٹ) جوتیاں پڑنا۔ جوتیوں کی مار۔
 پاپوش کے برابر نہ سمجھنا۔ (محاورہ) (۱) ذرا بھی خاطر میں نہ لانا (۲) نہایت حقیر اور ذلیل سمجھنا۔
 پاپوش کی گرد سمجھنا۔ (محاورہ) حقیر جانا۔ کوئی اہمیت نہ دینا۔
 پاپوش کی نوک پر مارنا۔ (محاورہ) پرواہ نہ کرنا۔ ذلیل جانا۔
 پاپوش مارنا۔ (محاورہ) (۱) جوتی مارنا (۲) بے توجہی کرنا۔ بے پرواہی کرنا۔
 پاپیادہ۔ (ن۔ صفت) پیدل۔ سواری کے بغیر۔ پاؤں پاؤں۔
 پاپا تباہ۔ پاپا تباہ۔ (ن۔ مذ) (۱) تلوار۔ چڑا جو پاؤں کے نیچے ہوتے کے اندر ڈالا جاتا ہے۔ (۲) کپڑے کا ٹہنا جو ٹوتا جو موزے کے اوپر پاؤں میں پہننے میں جس سے نوزہ محفوظ رہتا ہے (۳) موزہ۔ جراب۔
 پاپا تراب۔ پاپا تراب۔ (ن۔ مذ) (۱) مقام بدلنا۔ جگہ تبدیل کرنا (۲) شگون سفر کے لیے گھر سے نکلنا۔
 پاپا حامد۔ پاپا حامد۔ (ن۔ ۱۔ مذ) (۱) مشرقی لباس جو جسم کے پتلے حصے میں پہنا جاتا ہے۔ شکار یا بیٹوں کی مانند۔

پاجامے سے باہر (جو جانا) نکل پڑنا۔ پائے جامے سے باہر ہونا۔ (معاودہ) آئے سے باہر ہو جانا۔ حد سے زیادہ حسرت کنا۔ بہت خفا ہونا۔ پاجامے میں ڈال کر پہن لینا۔ (معاودہ) بد لحاظ ہو جانا۔ گستاخ ہو جانا۔ ادب لحاظ نہ کرنا۔

پاجامی - وہ مذ کیسٹ۔ بد کردار۔ پاجامی بطواف کعبہ حاجی نمی شود۔ رن۔ شل، کینز آدمی کسی صورت میں شریف نہیں بن سکتا۔

پاچراخ - رن۔ مذ) ایک پاؤں پر کھڑا۔ پاچراخ کرنا۔ (معاودہ) ایک پاؤں پر کھڑا ہونا۔

پاچک - رن۔ مذ) اوپلا۔ کٹنا۔ ارننا۔ پاچکانہ - رن۔ (مذ) ... جاعے ضرورت - بیت الخلاء - ٹی۔ کھڑی (۲) براز۔ گوہ۔ سناس۔ گندگی۔ فٹل۔

پاخانہ پھرنا۔ (معاودہ) گھٹنا۔ رن۔ صحت کرنا۔ پاخانہ خطا ہونا۔ (معاودہ) (۱) بے اختیار گوہ کا باہر نکلنا (۲) سخت خوف زدہ ہونا۔

پاخانے میں لوٹانہ رکھواؤں۔ (معاودہ) بہت خیر سمجھنے کی جگہ بولا جاتا ہے۔ پاڈراز - رن۔ صحت) پاؤں بھیلانے جوئے۔ آرام میں۔ مزے میں۔

پاڈر رکاب - چلنے کو تیار۔ آمادہ مستعد۔

پاڈر ہوا۔ (رن۔ صحت) بے بنیاد۔ خیالی۔ وہمی۔

پاڈروب - رن۔ مذ) وہ کڑھی جس سے گھوڑوں کے نیچے سے گھاس اور نید صاف کی جاتی ہے۔

پاڑیب - پائے زیب - (رن۔ صحت) (۱) پاؤں کی زینت (۲) ایک زورور پاؤں میں پہتا جاتا ہے۔ فضائل۔ چھاگل۔ کوجری۔

پاشکستہ - (رن۔ صحت) چلنے پھرنے سے معذور (۲) بے بس۔ مجبور۔

پاشویہ - پاؤں دھونا۔ پاؤں کو گرم پانی میں ڈال کر بیٹھنا۔

پاکوب (پائے کوب) - رن۔ صحت) ناچنے والا۔ رقص۔

پائے کوبی - (رن۔ صحت) پاؤں دے دے مارنا۔

پامال - رن۔ صحت) (۱) روندنا ہوا۔ پاؤں سے سٹلا ہوا۔ پاؤں سے لگا ہوا (۲) برباد۔ تباہ۔ خراب۔ خستہ۔ شکستہ حال۔ ویران۔

پامال کرنا۔ (۱) روندنا (۲) تباہ کرنا۔ خاک میں ملانا۔ ویران کرنا۔

پامالی - رن۔ (صحت) (۱) پاؤں سے روندنا (۲) تباہ و برباد کرنا (۳) مصیبت تکلیف۔ تباہی۔ بربادی۔

پامرد - رن۔ صحت) ثابت قدم۔ مستقل مزاج۔ باہمت۔ مددگار۔ معاون۔

پامردی - رن۔ (صحت) (۱) استقلال۔ معنوی (۲) ہمت۔ بہادری (۳) طاقت۔ زور۔

پاموز - رن۔ صحت) کبوتر۔ مرغ اور دوسرے پرندوں کے پاؤں کو پروں نے موزوں کی طرح ڈھک رکھا ہو۔

پاورق - رن۔ مذ) حاشیے کے نیچے اگلے صفحے کا پہلا لفظ۔

پایاب - رن۔ صحت) پانی میں زیادہ چلے جانے کا راستہ کم گہرا پانی۔ گھاٹ۔ پانیابی - رن۔ (صحت) کم گہرا پانی۔ (۱) فصل پین۔ وہ پانی جس میں آدمی پاؤں

سے چل کر گزر سکے۔

پاپ - (دس۔ ۱۔ مذ) (۱) گناہ۔ مجرم۔ قصور (۲) دکھ۔ عذاب۔ آفت (۳) بُرائی۔ عیب۔ نقص۔ شرابی (۴) ظلم۔ جبر۔

پاپ ابھرے پر ابھرے۔ (دشمن) بُرا کام پر شدہ نہیں رہتا۔

پاپ بسانا۔ (معاودہ) عذاب مول لینا۔ جنجال میں پڑنا (۲) بُرا کام کرنا۔

پاپ رُوپ - (دہ۔ مذ) (۱) بد شکل۔ بد صورت (۲) ظلم۔ جابر۔ بے رحم (۳) پاپی گنہگار۔

پاپ - (دہ۔ مذ) برامالی سے پیدا ہونے والا مرض جیسے آتشک۔

پاپ کا کھڑا (بیرٹرا) بھگر کو ڈوبتا ہے۔ (دشمن) ظلم کو ایک دن ضرور مزا ملتی ہے۔

پاپ کاٹنا۔ (معاودہ) (۱) جھگڑا چکانا۔ قضاہ کرنا (۲) عذاب کرنا (۳) قرضہ ادا کرنا۔ نجات دینا (۴) قصور معاف کرنا۔ خطا بخشا (۵) تکلیف سے بچانا۔

پاپ کٹنا۔ (معاودہ) جھگڑا دُور ہونا۔ قضاہ پاک ہونا۔ عذاب دُور ہونا۔ قضاہ کٹنا۔

پاپ کرنا۔ مجرم کرنا۔ گنہ کرنا۔ بُرا کام کرنا۔

پاپ کمانا۔ (معاودہ) بُرا کام کرنا۔ گنہ کرنا۔ زنا کرنا۔

پاپ کی پلٹ - (صفت) سراپا گناہ۔ مجسم گناہ۔ گناہ کی کھڑکی۔

پاپ لگنا۔ (معاودہ) (۱) جھگڑا سر ہونا (۲) عذاب پٹے بندھنا۔ دقت پیش آنا۔ روگ لگنا۔

پاپا - (Papa) (انگ۔ ۱۰۔ مذ) (۱) باپ۔ پدر۔ والد۔ (۲) بابا (۳) پوپ۔ عیسائیوں کا بڑا پارسی۔

پاپا بیٹ - رن۔ صحت) پاپا کا منصب۔ پاپا کا اختیار۔

پاپا - (دہ۔ ۱۰۔ مذ) جادل کا کیترا۔ پیاری۔ گھنٹی۔

پاپا پاش - (پا۔ پاش) (رن۔ صحت) سیاہ ڈبے کے کھال کی لمبی ٹوپی۔

پاپیٹر - (پا۔ پٹر) (دس۔ ۱۰۔ مذ) (۱) پارک۔ پیلا۔ کاغذ سا۔ پان کی مثل۔ پتے کی مانند۔ پاپر (۲) ارد۔ مونگ پھنے وغیرہ کے میدے کی نہایت پتلی اور ہلکی سالہ دار چھاتی جو تیل یا گھی میں تلی جاتی ہے۔ پاپڑی (۳) نہایت خشک۔ ٹھوگا (۴) نہایت کمزور (۵) کھڑک۔

پاپڑ سیلنا۔ (معاودہ) (۱) مصیبت برداشت کرنا (۲) تنگی اور غمی میں دن گزارنا۔ رنج و مصیبت میں عمر کاٹنا (۳) بیل سے بیل کر پاڑ جانا۔ بے رحم پھر کرنا۔

پاپڑا - (پاپ۔ ڈا) (دس۔ ۱۰۔ مذ) (۱) ایک درخت۔ گارو ڈیٹیا (۲) ایک قسم کا کیلے کا درخت (۳) ڈھاک کے درخت کا پھل۔

پاپڑا کھار۔ پاپڑ کھار - (دہ۔ مذ) وہ نمک جو پاپڑ میں ڈالتے ہیں۔

پاپلیٹن - (Poplin) (پاپ۔ پلین) (انگ۔ ۱۰۔ صحت) ایک قسم کا کپڑا۔

پاپن - پاپنی - (پا۔ پن۔ پاپ۔ نی) (دہ۔ صحت) (۱) گنہگار عورت۔ خطا کار مجبور (۲) پاپنی - (پا۔ پی۔ نی) (دہ۔ صحت) (۱) پاپ کرنے والا۔ گنہگار۔ قصور والا۔ مجرم (۲) ظالم (۳) بدکار۔ بد چلن (۴) بے رحم۔ گھوڑ (۵) کبوتر۔ بھیل۔

پاپنی کٹوال - (دہ۔ مذ) وہ کٹوال جس میں ہر سال کوئی رکونی ڈوبتا ہو۔

پاپنی کی ناؤ ڈوبی پردوبی - (دیشمن) بُرائی کا نتیجہ ضرور بُرا ہوتا ہے۔

پاپنی کی ناؤ منہ زار میں ڈوبتی ہے۔ (دیشمن) گنہگار اس کے خورد ج کے

پارہ - دف - 1 - مذ - گزرا ہوا سال - پچھلا سال (س - مذ) (۲) پھیل پادریا کا دوسرا کنارہ - دوسری طرف (۳) آخری حد - تمام - ختم (۴) منقہ - گہرائی (۵) خیر - بیگانہ - پارٹنرانا - دھارہ) کنارے لگانا - دوسرے کنارے پر پہنچانا - پارکنا - پارلنگنا - جو درگنا (۲) چاتھے پر پہنچانا - انجام کو پہنچانا - ختم کرنا (۳) مار ڈالنا - پارٹنا - (۱) دریا جو درگنا - دوسرے کنارے پر پہنچانا - ختم کرنا - پار ہونا - انجام کو پہنچانا - تمام کرنا (۳) نجات ہونا چھٹکارا ہانا (۲) ادا کرنا - بے باقی ہونا (۵) کامیاب ہونا - مطلب ہانا (۶) مرنا - خاتمہ - پائیڈ ہونا - پارٹرنل جو بجری دول - (مش) چھوٹے دوسرے - کام نکل جانے کے بعد - مصداق فراموش ہونا -

پارسال - (د) سن - گئے برس - پچھلے سال - برس کے سال - سال گزشتہ - پارکرنا - (۱) عاودہ (۲) دوسرے اُدھر کرنا (۲) دوران کرنا (۳) باہر نکلنا - عد سے برے کرنا (۴) بازی جیتنا - مارھنا گنا (۵) گزارنا - پورا کرنا - ناپسنا - پارلنگنا - (۱) عاودہ (۲) دوسرے کنارے پر پہنچانا - خاتمہ پائیڈ کرنا - نجات دینا - کامیابی حاصل کرنا - پارلے جانا - (۱) عاودہ (۲) جیتنا - مسرت لے جانا - پارنگنا - پارکرنا -

پار ہو جانا - پار ہونا - (۱) عاودہ (۲) جو درگنا (۳) دریا سے اتر جانا (۴) کسی چیز سے گزرا (۵) تھوڑا نکل جانا (۵) کام ہو جانا - مراد پائیڈانا (۶) ختم ہو جانا (۷) نیک جانا (۸) بھلا جانا - بھاگ جانا -

پارا - (۱) بار - (۲) (۱) مذ - (۱) سیلاب - ایک ریتن دھات جو سفید اور بھاری ہوتی ہے (۲) بے قرار - بے چین - پارا اترنا - (۱) عاودہ (۲) آگکی پہنچا کر بارے کو گیس بنا دینا - پارا بھرا ہونا - (۱) عاودہ (۲) بہت دزنی ہونا - بہت بھاری ہونا - پاراپلانا - (۱) عاودہ (۲) دزنی کرنا - بھاری کرنا - پرتھل کرنا (۲) کسی چیز میں پارے کو جذب کر دینا - پاراپلانا - (۱) عاودہ (۲) بھاری ہونا - دزنی ہونا - پارا مارتا - (۱) عاودہ (۲) پاس کو گشتہ کرنا - پارے کا پیالہ - (۱) صف - پارے کو بڑھوں کے ذریعے مجھد کے پیالے کی شکل بناتے ہیں - پارے کا کافور - پارے کا گشتہ - پارے کا گشتہ - دو آؤں کے ساتھ لاکر پارے کو آگ دیتے ہیں - اس طرح پارہ ناک جو جاتا ہے اُسے گشتہ کہتے ہیں - پارار - (۱) بار - (۲) صف - تیسرے برس - تیسروس - پاررتی - پارولی - (۱) پارٹ - (۲) پارٹ - (۳) پارٹ - (۴) پارٹ - (۵) پارٹ کی پیشی (۶) ڈیگ - شیڈرچی کی بوسہ کا ایک نام (۷) حضرت آدم کی بیوی حضرت حوا - پارٹ - (Part) (انگ - ۱ - مذ) (۱) حصہ - جزو (۲) حصہ کا کام - معززہ خدمت (۳) ایک کڑ کا کام (۴) ایک کڑ کے کالے - پارٹنر (Partner) (۱) پارٹ - (۲) (انگ - ۱ - مذ) (۱) ساتھی - رفیق - (۲) شریک - ساتھی - پارٹی - (Partiv) (پارٹی) (انگ - ۱ - مذ) (۱) جماعت - حزب -

(۱) دعوت - جلسہ (۲) فریق (۳) شریک - یمن - پارچہ - (پارچہ) (د) (۱) مذ - (۲) کپڑا - (۳) لباس - پوشاک - پسترا (۳) کپڑا - بارہ (۲) قاش - پھانگ (۵) گھاٹ - پھگٹ (۶) ایک دیشی کپڑا (۷) گوشت کا کپڑا (۸) بجان - پارچہ باف - (د) - (۱) مذ - کپڑا بننے والا - جولا ہا - پارچہ فروش - کپڑا بچھے والا - پارس - (د) - (۱) مذ - ملک ایران - فارس - ہوشنگ بادشاہ کے بیٹے کا نام جس کے نام پر کل ایران کو پارس کہتے ہیں - پارس - (پارسی) (۱) مذ - (۱) ایک پتھر جس کی نسبت مشہور ہے کہ دھات کو چھو کر سونا بناتا جاتا ہے - اکبر (۲) تندست - غیر فانی - مضبوط - پختہ - مستحکم (۳) فائن - دانا - سخی - غنی - پارس پھیل - (۱) مذ - ایک درخت - پارس ناتھ - (۱) مذ - (۱) پارس پتھر اور ناتھ ناک یعنی پتھر کا بنا ہوا اینٹور (۲) یمن سے تیسرا پتھر آئے ہیں (۱) دراس کی مورتی - پارس ناتھ سے چلی بھلی جو آنا دیوے پیس (۱) [مش] بے فیض سے لکھ نرسے مرغی بھلی جو انا دیوے پیس (۱) [مش] شخص اچھا جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے - پارسا - (پارسی) (د) (د) مسنت (۱) مسنتی - پرہیزگار - نیک - پاک - صالح - پارسانی - (پارسی) (۱) (د) - (۱) مسنت - نیک - پاک (۲) مسنت - زہد - پرہیزگاری - پارسل - (Parcel) (پارسل) (انگ - ۱ - مذ) ڈھیر حصہ - ٹوڈہ - پلندا - وہ چیز جس پر کاغذ یا کپڑا لپیٹ کر اور اوپر سے بانڈھ کر ڈاک یا ریل کے ذریعے بھیجتے ہیں - پارسی - (پارسی) (د) (۱) مذ - (۱) ایک قوم جس کا بانی زردشت یا زرتشت ہوا (۲) گیرہ آتش پرست - آگ کا پجاری - جو سی (۳) فارس کا باشندہ (۴) فارس کی بھئی ہوئی یا فارس کی کوئی شے (۵) فارسی زبان - پارک - (Park) (انگ - ۱ - مذ) احاطہ یا گھرا ہوا مقام جو شہریوں کی سیر و تفریح کے لیے ہو (۲) وسیع باغ - پارکی - پارکھی - (۱) صف - (۲) رکھنے والا - جو ہر شناس - پارلیمان - (پارلی - لی - مان) (انگریزی پارلیمنٹ (Parliament) کا مترادف - (۱) مسنت کسی آکا دکھ کی سب سے بڑی مجلس قانون ساز - پارلیمانی - (پارلی - لی - مانی) (انگریزی) پارلیمان سے متعلق - پارلیمان کا وضع کردہ یا منظور کردہ (۲) پارلیمان کے شایان شان (۳) زبان الفاظ وغیرہ - (Parliamentary) پارلیمانی حکومت - (Parliamentary Government) وہ جمہوری نظام حکومت جس میں حکومت پارلیمان کے سامنے جواب دہ ہوتی ہے - پارلیمنٹ - (Parliament) (پارلی - لی - سنٹ) (انگ - ۱ - مذ) دیکھے پارلیمان - پارلیمنٹری - (Parliamentary) (پارلی - لی - سنٹ - ری) -

پاس بک - (Pass Book) یہی حساب کی کتاب۔ بک سے
 مین دین کی کتاب۔
پاسپورٹ - (Passport) پر دانہ رابماری (بیر دن ملک جانے کیلئے)
پاس کرنا - (۱) منظور کرنا۔ پسند کرنا (۲) کامیاب ہونا (۳) لحاظ کرنا۔ ادب کرنا۔
 (۴) جانب داری۔ طرف داری (۵) دیکھ بھال (۶) اجازت دینا (۷) عبور کرنا۔
 طے کرنا (۸) ترقی دینا (۹) چھوڑنا۔ نظر انداز کرنا۔
پاس ہونا - کامیاب ہونا۔ امتحان میں پورا اترنا۔
پاس - (۱) قریب۔ نزدیک (۲) قابو میں۔ قبضے میں۔ تصرف میں۔ ملکیت میں۔
پاس آگنا - (۱) محاورہ (۲) قریب آنا۔
پاس آنا - (۱) محاورہ (۲) قریب آنا۔ قریب آنا (۳) ہم بستر ہونا۔ صحبت کرنا۔
پاس بیٹھنا - (۱) محاورہ (۲) صحبت پانا۔ تعلیم حاصل کرنا۔ تربیت پانا (۳)
 قریب بیٹھنا۔
پاس پاس - (۱) قریب قریب۔ نزدیک نزدیک (۲) گودا گود۔ چاروں طرف۔
 (۳) بھڑک۔ بل کر۔
پاس پڑوس - (۱) مذ (۲) ارد گرد۔ قرب و جوار۔ آس پاس (۳) ہم سماگی۔
پاس پھٹکنے نہ دینا - (۱) محاورہ (۲) نزدیک بھی نہ جانے دینا۔
پاس جانا - (۱) محاورہ (۲) قریب جانا (۳) ہم بستر ہونا۔ جماع کرنا۔
پاس رہے جانے یا ماٹ چلے جانے - (دش) ساتھ رہنے یا سفر
 میں سامنے بننے سے ہی کسی کی بھی بدی کا نتیجہ بنتا ہے۔
پاس کوڑی نہ بازار لیکھا - (دش) تلاش۔ نادار۔ کنگال۔
پاس نہ کھڑے ہونا - (۱) محاورہ (۲) متفر ہونا۔ دود رہنا۔ پرہیز کرنا۔
پاسا - (۱) پاسا۔ (پان۔ سا) (۲) اس۔ (۱) مذ (۲) قریب۔ کلب (۳) پہلو۔ طرف۔
 (۳) جو سر کی بازی میں وہ شش پہل کھڑا جسے باری باری کھڑی پھینکتے
 ہیں (۳) اعلیٰ درجے کا ہونا۔
پاسا اٹھا پڑنا - (۱) بازی مار جانا (۲) حلق حاصل نہ ہونا۔
پاسا پڑنا - (۱) داؤں گنا۔ جیت ہونا (۲) کامیاب ہونا۔ فتح پانا۔ مرضی کے مطابق
 ہونا (۳) بخت رسا ہونا۔ اقبال یاد ہونا۔
پاسا پلٹنا - پاسا اٹھنا۔ (۱) داؤں پھرنے۔ ہار جانا (۲) شکست ہوتے ہوتے
 فتح ہرنا (۳) منسل سے اقبال مند ہونا۔ انقلاب ہونا۔
پاسا پھینکنا - (۱) قریب ڈالنا (۲) قسمت آزمائی۔
پاستان - (پاس۔ تان) (۱) مذ (۲) اٹھانا۔ قدیم گڑھا ہوا۔
پاسخ - (پا۔ سخ) (۱) مذ (۲) جواب۔ اتر۔
پاسا - (پاس۔ نا) (۱) محاورہ (۲) درودھ آمانا (۳) درودھ کا حق میں آجانا۔
پاسنجر۔ پسنجر - (Passenger) (۱) پاسنجر۔ (۲) پاسنجر۔ (۳) ایک۔ (۴) مذ
 سفر۔ حواری۔
پاسنجر ٹرین۔ پسنجر ٹرین - (۱) ایک۔ (۲) مسافر گاڑی۔ (۳) وہ ریل گاڑی جو عام طور
 پر ہر پستیشن پر رکتے۔
پاسنگ - (پا۔ سنگ) (۱) مذ (۲) جزوی۔ تھوڑا سا۔ نہایت خفیف۔ بہت کم۔
 ذرا سا۔ (۳) کچھ نہیں (۴) بل۔ فرق۔ کمی۔ ترازو کے پڑوں کا فرق (۳) ترازو کے
 پڑوں کی کمی بیشی کو پورا کرنے کی غرض سے جو وزن ترازو کی ڈگری سے باندھا

(۱) ایک۔ (۲) صحت دیکھنا۔ پارلیمنٹ۔ (Parliamentary Govt.)
پارنا - (پا۔ نا) (۱) محاورہ (۲) پرانے کے معنی میں سے کابل بنانا (۳) مکمل کرنا (۴) نکالنا۔
 کھونا۔ ختم کرنا (ق)۔
پارٹی - (پار۔ ٹی) (۱) قوت۔ (۲) مشق۔ چوٹی۔
پارہ - (پا۔ رہ) (۱) مذ (۲) پارچہ۔ ٹکڑا۔ (۳) بڑا۔ (۴) پرزہ۔ (۵) تاش۔
پھاگ - (۱) پرزہ۔ (۲) چوٹی۔ (۳) پتھر کی چوٹی۔ (۴) دیوار۔
پارہ پارہ کرنا - (۱) محاورہ (۲) ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔ دو جہاں اڑانا۔ پرچے اڑانا۔
پارہ چکر - (۱) مذ (۲) چکر۔ (۳) بہت عزیز۔ (۴) بچنے کا ٹکڑا۔
پارہ دوز - (۱) محاورہ (۲) کوڑھنے والا۔ (۳) کڑوں کو سینے والا۔ پیوند لگانے والا (۴)
 درزی (۵) موچی (۶) خیمہ کی مرمت کرنے والا۔
پاری - (پا۔ ری) (۱) مذ (۲) بڑی۔ (۳) بھیل۔ (۴) گڑھا۔ (۵) بڑا گول ٹکڑا۔
پارے کا قائم التار ہونا - (۱) محاورہ (۲) بڑی بوٹوں کے ملانے سے پاسے میں
 یہ خاصیت پیدا ہو جاتا کہ وہ آگ پر نہ اٹھے بلکہ تھتھتہ ہو جائے۔
پارے کا کشتہ - (۱) مذ (۲) وہ داکھ جو پاسے کا قائم التار کے آگ سے دے کر
 بنائی جاتی ہے۔
پارے کی دیوار - گارے یا چرنے کے بیڑا بیٹوں یا پتھروں کی جینی ہوئی دیوار۔
پارینٹ - (پا۔ ری) (۱) مذ (۲) صفت۔ (۳) پرانا۔
پاڑ (پاڑھ) - (۱) مذ (۲) پچان (۳) دکھائی یا بانس کی بنائی ہوئی اونچی
 نشست جس پر بیٹھ کر مہاراجہ کی پرکام کرتے ہیں (۳) چھائی کا تختہ (۴)
 پہاڑ (۵) کھڑی کھال جو کونوئیں پر ڈالتے ہیں۔
پاڑ آنا - (۱) محاورہ (۲) مصیبت آنا۔
پاڑ پڑنا - (۱) محاورہ (۲) صدمہ مرانا۔ مصیبت بھیننا۔
پاڑوسے - (۱) مذ (۲) ہینے کے آخری دن بیکہ راتیں اندھیری ہوتی ہیں۔
پاڑھا - (پا۔ رھا) (۱) مذ (۲) پھیل۔ (۳) ایک قسم کا ہارن۔
پاڑند - (پا۔ رند) (۱) مذ (۲) پارسیوں کی مذہبی کتاب۔ (۳) تندر کی ایک تفسیر۔
پاس - (۱) مذ (۲) (۱) پہر۔ وقت۔ (۲) میں گھنٹے کا وقت (۳) خیال۔ (۴) لحاظ۔ ادب۔
خاطر (۳) جانب داری۔ طرف داری (۴) پہرہ۔ (۵) چوک۔
پاس آبرو - (۱) مذ (۲) عزت کا لحاظ۔ (۳) حرمت کا خیال۔
پاس ادب - (۱) مذ (۲) ادب کا خیال۔ ادب کا لحاظ۔
پاس انفس - (۱) مذ (۲) ہر سانس کے ساتھ اٹھ کا لفظ جاری ہونا۔
پاسان - (۱) مذ (۲) دکھ بھال کرنے والا۔ (۳) گنجان۔ (۴) پہرے دار۔ (۵) چوکیدار۔
پاسانی - (۱) مذ (۲) دکھائی۔ (۳) دکھ بھال۔ (۴) گنجان۔ (۵) پہرے دار۔ (۶) چوکیدار۔
پاس خاطر - (۱) مذ (۲) لحاظ۔ رعایت۔ (۳) حرمت۔
پاس داری - (۱) مذ (۲) محاورہ۔ (۳) حرمت۔ خیال۔ ادب (۴) خاطر۔ جانب داری
 طرف داری۔ حمایت (۵) گنجان۔ (۶) دکھ بھال۔
پاس مشرق - (۱) مذ (۲) مشرق کا لحاظ۔ (۳) شرعی حکم کی تعمیل۔
پاس کرنا - (۱) مذ (۲) محاورہ۔ رعایت کرنا۔
پاس نیک - (۱) مذ (۲) کھانا کھانے کا لحاظ۔ (۳) لازم رہنے کا لحاظ۔
پاس - (Pass) (۱) مذ (۲) اجازت کا پر دانہ۔ (۳) راہداری کا ٹکڑا۔ (۴) اجازت
 منظور کی گئی (۵) کامیابی (۶) (۳) وثیقہ۔

پاک مفرز - پاک رائے - دن صنف (اچھے خیالات رکھنے والا۔ نیک رائے۔ سمیت من خیالات کا نام۔)

پاک نظر - پاک نگاہ - دن صنف (پاک بین (۲) نیک نیت جس کی نیت نیک اور صاف ہو۔)

پاک ہنر (د مہرشت) - دن صنف (نیک مزاج۔ نیک طبیعت۔ نیک نیت۔ پاک ہونے والا۔ محاورہ) (۱) صاف ہونا۔ میل ڈور ہونا (۲) تمام ہونا۔ حساب ختم ہو جانا (۳) نجاست دور ہونا (۴) جھمن سے فارغ ہونا۔

پاکٹ - (Pocket) پاکٹ (پاکٹ) - دن صنف (جیب۔ خراب۔)

پاکٹ بک - (Pocket Book) جیب میں رکھنے کی نوٹ بک۔

پاکستانی - (پاکسٹان) - دن صنف (پاکستان سے متعلق۔ پاکستان کی کوئی چیز۔ پاکستان کا باشندہ۔)

پاکتار - (پاکتار) - دن صنف (مصر) شہرت میں آنا۔

پاکھ - (پاکھ) - دن صنف (۱) نذرہ روزہ - ترمی ہمیں نصف حجتہ۔

پاکھا - (پاکھا) - دن صنف (۱) بازو۔ (۲) چاب - طرف (۳) بازو کی دیوار (۴) سایہ (۵) پھیر۔ (۶) اوان (۷) ڈیڑھی (۸) چھوٹا مکان۔

پاکھر - (پاکھر) - دن صنف (۱) چارو آئینہ - آہنی پوشاک بولرائی کے وقت ہاتھی گھوڑوں کو پہناتے ہیں (۲) تریال - ٹماٹ کی جھول (۳) ایک درخت۔

پاکھنڈ - (پاکھنڈ) - دن صنف (۱) بدعت - جزائی - نقص - جھگڑا - مذہب میں نئی ایجاد کرنا (۲) دغا - فریب - چال - کیٹ (۳) بناوٹ - دکھاو - نقص۔ (۴) بدعاشی - بد ذاتی - شرارت۔

پاکھنڈھیلانا - (پاکھنڈھیلانا) - دن صنف (۱) بدعت پھیلانا - کر کا جاں بھانا - فریب دینا۔

پاکھنڈھی - (پاکھنڈھی) - دن صنف (۱) بدعتی - منافق - ریاکار - کپٹنی - گندم نجا ہوا فروش فریبی - شریر - جھگڑالو۔

پاکھی - (پاکھی) - دن صنف (۱) صفائی - ستھرائی - ہمارت (۲) پرہیز گاری - تقویٰ - عظمت - عصمت (۳) نیل (۴) ناف کے نیچے کے بالوں کی صفائی۔

پاکھیٹا - (پاکھیٹا) - دن صنف (۱) ہمارت - ستھرائی - ہمارت۔

پاکھیزہ - (پاکھیٹا) - دن صنف (۱) شہہ - پوترہ - صاف - ستھرا - طاہر (۲) بے نقص دے جیب (۳) عمدہ - خوب - خوش اسلوب (۴) بے بڑم۔

پاکھیزہ صورت - (پاکھیٹا) - دن صنف (۱) خوب صورت - گلابچا۔

پاک - (پاک) - دن صنف (۱) دوپٹہ - پگڑی - ٹنگی - دستار (۲) پاؤں - قدم (۳) مٹھالی۔

پاک بولٹنا - (پاک بولٹنا) - دن صنف (۱) پاؤں بولٹنا - جھولے میں آنے سے بڑھ کر ایک خاص طریقے سے جھولے کی رستی میں پاؤں اٹھانا۔

پاکگاہ - (پاکگاہ) - دن صنف (۱) فوج - لشکر۔

پاکگاہ - (پاکگاہ) - دن صنف (۱) جگالی - کھانے کو چاکا باریک کرنا۔ چوپاؤں کا چارہ چرنے کے بعد آرام سے چھیننا اور چارے کو منہ میں جبا کے باریک کرنا۔

پاکرانا - (پاکرانا) - دن صنف (۱) جگالی کرنا (۲) مال ہضم کرنا۔

پاکگل - (پاکگل) - دن صنف (۱) بالا - دیوانہ - بڑی - خبطی (۲) بے وقت - احتی - برہنہ - نادان (۳) گردن (۴) پریشان - منکر - منحوس - حیران - سرگردان۔

پاکگل بنانا - (پاکگل بنانا) - دن صنف (۱) اتنا تنگ کرنا کہ دو سر اسٹ پٹا جائے۔

پاکتار - (پاکتار) - دن صنف (۱) نذرہ روزہ - ترمی ہمیں نصف حجتہ۔

پاکٹ - (Pocket) پاکٹ (پاکٹ) - دن صنف (جیب۔ خراب۔)

پاکٹ بک - (Pocket Book) جیب میں رکھنے کی نوٹ بک۔

پاکستانی - (پاکسٹان) - دن صنف (پاکستان سے متعلق۔ پاکستان کی کوئی چیز۔ پاکستان کا باشندہ۔)

پاکتار - (پاکتار) - دن صنف (۱) نذرہ روزہ - ترمی ہمیں نصف حجتہ۔

پاکھا - (پاکھا) - دن صنف (۱) بازو۔ (۲) چاب - طرف (۳) بازو کی دیوار (۴) سایہ (۵) پھیر۔ (۶) اوان (۷) ڈیڑھی (۸) چھوٹا مکان۔

پاکھر - (پاکھر) - دن صنف (۱) چارو آئینہ - آہنی پوشاک بولرائی کے وقت ہاتھی گھوڑوں کو پہناتے ہیں (۲) تریال - ٹماٹ کی جھول (۳) ایک درخت۔

پاکھنڈ - (پاکھنڈ) - دن صنف (۱) بدعت - جزائی - نقص - جھگڑا - مذہب میں نئی ایجاد کرنا (۲) دغا - فریب - چال - کیٹ (۳) بناوٹ - دکھاو - نقص۔ (۴) بدعاشی - بد ذاتی - شرارت۔

پاکھنڈھیلانا - (پاکھنڈھیلانا) - دن صنف (۱) بدعت پھیلانا - کر کا جاں بھانا - فریب دینا۔

پاکھنڈھی - (پاکھنڈھی) - دن صنف (۱) بدعتی - منافق - ریاکار - کپٹنی - گندم نجا ہوا فروش فریبی - شریر - جھگڑالو۔

پاکھی - (پاکھی) - دن صنف (۱) صفائی - ستھرائی - ہمارت (۲) پرہیز گاری - تقویٰ - عظمت - عصمت (۳) نیل (۴) ناف کے نیچے کے بالوں کی صفائی۔

پاکھیٹا - (پاکھیٹا) - دن صنف (۱) ہمارت - ستھرائی - ہمارت۔

پاکھیزہ - (پاکھیٹا) - دن صنف (۱) شہہ - پوترہ - صاف - ستھرا - طاہر (۲) بے نقص دے جیب (۳) عمدہ - خوب - خوش اسلوب (۴) بے بڑم۔

پاکھیزہ صورت - (پاکھیٹا) - دن صنف (۱) خوب صورت - گلابچا۔

پاک - (پاک) - دن صنف (۱) دوپٹہ - پگڑی - ٹنگی - دستار (۲) پاؤں - قدم (۳) مٹھالی۔

پاک بولٹنا - (پاک بولٹنا) - دن صنف (۱) پاؤں بولٹنا - جھولے میں آنے سے بڑھ کر ایک خاص طریقے سے جھولے کی رستی میں پاؤں اٹھانا۔

پاکگاہ - (پاکگاہ) - دن صنف (۱) فوج - لشکر۔

پاکگاہ - (پاکگاہ) - دن صنف (۱) جگالی - کھانے کو چاکا باریک کرنا۔ چوپاؤں کا چارہ چرنے کے بعد آرام سے چھیننا اور چارے کو منہ میں جبا کے باریک کرنا۔

پاکرانا - (پاکرانا) - دن صنف (۱) جگالی کرنا (۲) مال ہضم کرنا۔

پاکگل - (پاکگل) - دن صنف (۱) بالا - دیوانہ - بڑی - خبطی (۲) بے وقت - احتی - برہنہ - نادان (۳) گردن (۴) پریشان - منکر - منحوس - حیران - سرگردان۔

پاکگل بنانا - (پاکگل بنانا) - دن صنف (۱) اتنا تنگ کرنا کہ دو سر اسٹ پٹا جائے۔

حالات بتانے والا۔ فراست الید کا ماہر۔ دست شناس۔

پالمسٹری - (Palmistry) (پالمسٹری - ری، وانگ، ۱- مٹھ) ہاتھ کی لکیروں سے حالات بتانے کا علم۔ دست شناسی۔

پان - (۱- ۱- مذ) ۱) برگ تنبول، ناگر بیل، ایک قسم کا پتہ (۲) پان کی شکل کا جوتے میں اڑتی کی طرف لگا ہوا چمڑے کا ٹکڑا (۳) گلوٹ کے اوپر پاندھنے کا پتہ۔ (۴) تاش کا پتہ جس پر پان کی شکل بنی ہو (۵) لیٹی - گلف - ماٹری (۶) پان کی مانند نقش و نگار - گڑھاوٹ - بناوٹ جو کپڑوں یا کسی دوسری چیز پر ہو۔ (۷) پانچ (۸) ہاتھ - دست۔

پان اٹھانا - (۱- محاورہ) (۱) بڑا اٹھانا - کسی ذمہ داری کو قبول کرنا۔

پان بنانا - پان لگانا - (۱- محاورہ) (۱) پان کو پٹنا لگانا - گھوری بنانا - بڑا بنانا (۲) ماٹری دینا (۳) پھول کا ڈھنسا (۴) پان کی شکل کے نقش بنانا۔

پان پٹنا - (۱- مذ) (۱) سودا سلفت - کھانے پکانے اور ضروریات کی چیزیں۔ لازیم خانہ داری (۲) پان، برگ تنبول - ناگر بیل کا پتہ (۳) بیوی کی خبر گیری۔

پان پھول - (۱- مذ) (۱) بڑا اٹھانا (۲) چھ بڑا نتیجہ (۳) نازک اندام بڑے نازک بدن۔

پان چباننا - پان کھانا۔

پان چیرنا - (۱- محاورہ) (۱) پان کو پھاڑنا - پان کے ٹکڑے کرنا (۲) فضول اور بے کار چرنا (۳) بے فائدہ کام کرنا۔

پان دان - (۱- مذ) (۱) پان رکھنے کا ڈبہ یا پٹاری۔ دھات کا برتن جس میں چونا کھتا۔ ڈلی - الپچی وغیرہ پان کے لوازمات رکھے جاتے ہیں۔

پان دینا - (۱- محاورہ) (۱) پان کھلانا (۲) محبت کرنا - پیار کرنا (۳) عزت کرنا۔ خاطر داری کرنا - آؤ بھگت کرنا (۴) رخصت کرنا۔ جانے کی اجازت دینا (۵) سگنا نہ منور کرنا۔ منگنی کرنا۔

پانسو - پانچ بیگڑے - پنج صد - ۵۰۰ -

پان سے پتلا چاند سے چکلا - (پیش) نہایت نازک اور خوب صورت۔

پان صد - پانچ سو - پانسو۔

پان صدی - مغلوں کے عہد کا ایک منصب جس میں منصب دار کو اتنی جاگیر ملتی تھی کہ وہ پانچ سو سپاہیوں کا خرچ برداشت کر سکتا تھا۔

پان کا پیڑا - (۱- مذ) پان کی گوری۔

پان کا لکھا - (۱- مذ) پان کی تحریر۔ پان کا رنگ جو ہونٹوں پر جمایا جائے۔

پان کھلانا - (۱- محاورہ) منگنی کی رسم ادا کرنا۔

پان کھلانی - (۱- مذ) (۱) وہ حق جو بجا ہو جو پان کھلانے کے عوض ٹھکر بڑھی کے وقت دیا جاتا ہے (۲) منگنی (۳) پان کھلانے کی اہمیت (۴) پان کھلانے کا رنگ۔

پان مڑجانا - پان کا خشک ہو جانا۔ مڑجانا۔

پان (Pan) (وانگ) ایک سابقہ معنی ہمارے سب کی (صحیح تلفظ چین)

پان اسلامک - (Pan-Islamic) ہمارے اسلامی۔ کل اہل اسلام کا۔

پان افریکن - (Pan-African) ہمارے افریقی۔ کل اہل افریقہ کا۔

پان اینگلیکن - (Pan-anglican) ہمارے انگریزی۔ کلیسا کے انگلستان کی کل شاخوں کا۔

پانا - (۱- ۱- مذ) (۱) پتہ لگانا - کھوج مٹا - معلوم ہونا۔ دریافت ہونا (۲) کھانا۔ نوش کرنا (۳) وصول کرنا۔ لکھنا - کسی چیز کا مل جانا (۴) پہننا۔ تاشنا۔ بھانپنا۔ جاننا (۵) واپس لینا (۶) بھونکنا۔ بھرتا - اٹھانا۔ برداشت کرنا۔ ہنسنا۔ بھلکنا۔

پانپ - (۱- ۱- مذ) (۱) سخت تکلیف۔ دکھ۔ پاپ۔

پانت - (۱- ۱- مذ) (۱) قطار (۲) سپاہیوں کی لائن۔

پانٹھ - (۱- ۱- مذ) (۱) مسافر۔ سیاح (۲) سورج۔

پانچر - (۱- ۱- مذ) (۱) ڈھانچ۔ پیل۔ پہلو۔

پانچھا - (۱- ۱- مذ) (۱) مصلح۔ مصلحتا۔ مصلحتا لگانا۔ پڑنا۔ بند کرنا۔

پانچ - (۱- ۱- مذ) (۱) چار اور ایک پانچ - پنج - (۲) چلتا ہوا۔ چالاک

پانچہ کار (۳) زمرہ۔ پتا۔

پانچ اندری - اصل پنج اندری ہے۔ حواس خمسہ (۱) مشاہدہ۔ سامعہ۔ باہرہ۔ ناظرہ) پانچ پنج کیجے کاج، ہارے جھتے نہ آوے لاج۔ (۲) جو کام صلاح و مشورہ سے کیا جائے اس میں ناکامی بھی ہو تو ذلت نہیں ہوتی۔

پانچ جو تیاں اندھے کا پانی - (۱- ۱- مذ) (۱) جب کوئی شخص بہت زیادہ مانگتا ہے تو خوات کے لیے اُسے کہتے ہیں۔

پانچ سات - تھوڑے بچہ۔

پانچ میسر چودہ خانوادے - (متولہ) فقیری کی بنیاد یعنی پانچ میروں میں حضرت علیؑ، حضرت سہبؑ، حضرت حسینؑ، حضرت حسنؑ، حضرت علیؑ اور کلینؑ اور زیادہ

اسی طرح فیروز کے چودہ سلسلے ہیں۔

پانچ مینے بیاہ کو مینے پیٹ کہاں سے لائی - (۱- متولہ) جب کوئی بے نالوبات ہو تو کہتے ہیں۔

پانچ ہاتھ کی زبان - (۱- ۱- مذ) (۱) زبان دماغ کا رخ اور شروع بہت بڑے والا۔

پانچوال - (۱- ۱- مذ) (۱) نصف آئینہ - بیجم - ۱/۲ ایک بٹا پانچ۔

پانچول - (۱- ۱- مذ) (۱) نصف ہر پانچ - پانچ کے پانچ۔

پانچول انگلیاں برابر (یکساں) نہیں ہوتیں - (پیش) ہر انگلی میں فرق ہے (۲) سب آدمی یکساں نہیں۔ ہر آدمی کا مزاج جڑا ہے۔ سب انسان کی طبیعتیں الگ الگ ہیں۔

پانچول انگلیاں - پانچول چراغ - (پیش) بہت لائق ہے۔ بے عیب۔

پانچول انگلیاں گھی میں ہیں - (پیش) سب کام لادھ میں ہے۔ سب کچھ تابوں ہے۔ کارناموں میں (۲) بڑے عیش میں ہیں۔ مزے کرتے ہیں (۳) کھانے پینے کی فراط ہے۔

پانچول پانڈے، چھٹے نارائن - (پیش) (۱) پانچ پانڈوں اور چھٹے کرشن جی دہاں بولتے ہیں جہاں کسی کے اتنا قیہ آہانے پر بہت توشی ہو (۲) مشورے میں برکت ہوتی ہے۔ کرشن جی پانڈوں کے صلاح کار تھے۔

پانچول تر ہیں - (پیش) کام خوب بن رہا ہے۔ مطلب حاصل ہے۔

پانچول حواس ٹھکائے لگنا - (۱- محاورہ) بد حواس ہو جانا۔

پانچول مسواروں میں نام لکھوانا - (پیش) خواہ مخواہ ناموں کے ڈھرنے میں ایسے آپ کو شامل کرنا۔ ہونا لکھوانا کر شیدوں میں ملنا۔ کم تر آدمی کا اپنے آپ کو مسز آدمیوں کے ساتھ شمار کرنا۔

پانچول عجب شرعی - (۱) مذ، چوری - زنا - جموٹ - جوا - شراب -
 پانچول ٹھی میں مسکرنا ہی میں - دیشل، دیکھنے پانچول اٹھیاں لگی ہیں -
 پانچول ہتھیار - (۱) مذ، دھال - توار - برجی - تیر - کمان -
 پانڈ - (ص، صفت) (۱) وہ عورت جس کے پستان نہ ہوں -
 پانڈا - (پان - ڈا، ص) (۱) مذ، (۱) مندر میں پر جھار کرنے والا برہمن (۲) برہمنوں کا
 ایک فرقہ (۳) عالم - فاضل - اُستاد -
 پانڈو - (پان - ڈو، ڈے) (۱) مذ، (۱) زمین جو برت ایدگیں مٹی سے مرکب ہو، پانی زمین
 پانڈو - (ص، ص) (۱) مذ، (۱) راجہ پانڈو کی اولاد - پانڈو کا خاندان - پانچ بھائی - بدھ شٹر - ارتھ
 بییم - نخل - سید پر جو بھارت کی جنگ میں شریک ہوئے -
 پاٹری - (وہ - صف) بری اٹھانے والا - تل - تال - قمار - جو بھگھانے والا -
 پاٹڑے - (پان - ڈے) (۱) مذ، (۱) پانڈو - برہمن - اُستاد - مندر (۲) برہمنوں کا ایک خطاب
 پاٹڑے جی پچھتا ڈگے پھر وہی چنے کی کھاوگے - (دیشل) (۱) گستاخ ساز
 گے تو آخر کو پچھتا ڈگے -
 پاٹڑے جی دونوں سے گئے - جھلاو لانہ مانڈے - (دیشل) کچھ ناندھ
 نہ بہا - کچھ نہ بلا - نہادھر کے بسے نہ اُدر کے رہے -
 پاٹڑی - (پان - ڈی، ڈے) (۱) ص، (۱) مذ، (۱) خوشبودار پتوں والی ایک بیل (۲) پان
 کی بیل -
 پانڑوہ - (پانڑ - وہ) (ف - صفت) پندرہ - ۱۵ -
 پانڑوہم - (پانڑ - وہم) (ف - صفت) پندرہواں -
 پانپس - (۱) مذ، (۱) کھاو بیلا جو کھیتوں میں بطور کھاو ڈالتے ہیں -
 پانپس دینا - پانپسنا - کھیت میں کھاو دینا -
 پانسو - (پان - سو) (۱) ص، (۱) مذ، (۱) پانچ سو کا مختلف -
 پانسی - (پان - سی) (۱) ص، (۱) مذ، (۱) وہ جان میں جس میں گھاس رکھتے ہیں - پاسی -
 پانلو - پانلوں - (پان - اول، پان - اول) (۱) مذ، (۱) پاؤں - قدم - پیڑ -
 پانہ - (پان - نہ) (۱) ص، (۱) مذ، (۱) کڑی کا وہ ٹکڑا جو ٹھٹی کڑی چیرتے وقت دند میں
 لکتا ہے - پھانہ (۲) وہ آگ جسے سوچی ہوئے کہ غالب پر پڑھاتے وقت
 اڑی میں ٹھنک دیتا ہے -
 پانی - (۱) مذ، (۱) اسیجن اور پانڈو جن گیس کا بے رنگ - بے مزہ - بے ہلک
 اور سیال مرکب جسے گرم کر دو تو جھاپ اور ٹھنڈا کر دو تو برف بن جاتا ہے (۲)
 آب - باد - جل (۳) بارش (۴) پسینہ (۵) دھات - مٹی - نطفہ (۶) شراب -
 (۷) شرم - حیا (۸) آنسو - اشک (۹) رطوبت - میل (۱۰) رقیق ہتلا (۱۱)
 ٹھنڈا (۱۲) پھیلا (۱۳) نرم - لافم - ڈھیلہ (۱۴) کم زور - ٹھنڈا (۱۵) برسات -
 ہمت - قصد - استیصال -
 پانی آنا - (۱) محاورہ (۱) ییز برستا - بارش جو نا (۲) گھٹا اٹھنا - بادل جو نا (۳)
 موٹیا بند ہو جانا (۴) آنسو بہنا (۵) نرم سے رطوبت خارج ہو جانا -
 پانی آنا - (۱) محاورہ (۱) پانی نیچے لانا (۲) پانی ایک مکان سے دوسرے
 مکان کی طرف بہانا (۳) پانی گھٹانا پانی کم کرنا (۴) پانی کو دھلا دھلن کے سر پر دارنا
 پانی اتر آنا - (۱) محاورہ موٹیا بند ہو جانا -
 پانی اترنا - (۱) محاورہ (۱) بارش جو نا - ییز برستا (۲) موٹیا بند کا فارضہ لاحق جو نا
 (۳) پانی کا دریا یا جھیل میں کم ہو جانا -

پانی بانڈھنا - (۱) محاورہ (۱) روک لگانا - بند بانڈھنا (۲) تالاب کھودنا (۳) پانی کو
 بھڑانا - روکن (۴) نامکن کام کرنے کی کوشش کرنا -
 پانی بھگانا - (۱) محاورہ کسی دھات یا اینٹ کو جب گرم کر کے پانی میں ڈال دینا -
 پانی برسنا - (۱) محاورہ (۱) ییز برسنا - بارش جو نا -
 پانی بہانا - (۱) محاورہ کسی کے مرنے پر بھرے پر بھر کر کاڑوں پر پانی ڈالنا (۲) روننا -
 پانی بہہ جانا - (۱) محاورہ (۱) پانی کا بہہ کر ضائع ہو جانا (۲) شرم جاتی رہنا -
 لحاظ نہ رہنا -
 پانی بھڑنا - (۱) محاورہ (۱) کنویں تالاب یا جھیل سے پانی لانا (۲) برتن کو پانی سے
 پرگرتنا (۳) عاجزی دکھائی کرنا (۴) غلام جو نا - فرماں بردار جو نا -
 پانی پانی کرنا - (۱) محاورہ (۱) شرمندہ کرنا (۲) بھگانا - تپلا کرنا (۳) پسینہ پسینہ کرنا -
 پانی بانڈھنا -
 پانی پانی ہو نا - (۱) محاورہ (۱) شرمندہ ہو نا - نام جو نا (۲) پسینہ پسینہ ہو نا (۳)
 تر جونا - بھگانا (۴) تپلا ہو نا بھگانا - نرم جو نا (۵) بہت زیادہ پانی برسنا -
 پانی پر بنیاد ہو نا - (۱) محاورہ (۱) بود اور کچا جو نا - میز مستقل اور بے قیام جو نا -
 ناپائیدار جو نا -
 پانی پڑنا - (۱) محاورہ (۱) ییز برسنا - بارش جو نا - برکھا جو نا (۲) پھوٹے یا چھلے
 کا پک جانا -
 پانی پھیر جانا (پھرننا) - (۱) محاورہ (۱) احتیر ہو جانا (۲) خواب ہو جانا - نقصان
 ہو نا - ضائع جو نا (۳) برتن یا زور پر سونے چاندی کا پانی پڑھنا (۴) برتن
 کا نقلی ہو نا (۵) رونق جو نا -
 پانی پھونکنا - (۱) محاورہ (۱) پانی دم کرنا (۲) گھٹے کا زیادہ پانی پھونک کر نکالنا -
 پانی پھیر دینا - (۱) محاورہ (۱) محنت بر باد کرنا - محنت رائگان کرنا (۲) احسان
 بخول جانا (۳) کام خراب کر دینا - کام بگاڑ دینا -
 پانی پیسنہ پیر آنا ہے - (۱) مشل) راز چھپانے سے نہیں چھپتا -
 پانی پنی کی کر دھا دینا - (۱) محاورہ بہت زیادہ دھا دینا - ہر وقت اور ہر دم دھا دینا -
 پانی پنی پنی کر کوسنا - (۱) محاورہ (۱) بے اہتمام دھا دینا - بہت کوسنا -
 پانی پنی کزرات پوچھنا - (۱) محاورہ (۱) بے موقع اور بے وقت کام کرنا - موقع
 گزار کر کام کرنا -
 پانی پیچھے چھان کے، اگر وہ بھڑیے پہچان کے - (۱) مشل) ہر کام سوچ بچھ
 کر کرنا چاہیے -
 پانی پیٹنا - (۱) محاورہ (۱) پانی ملق سے نیچے اترنا - پیاس لگھانا -
 پانی تارا جو نا - (۱) محاورہ (۱) برانے گہرے کنویں میں جو پانی چکتا دکھائی دیتا
 ہے کنویں کی گہرائی میں پانی کا تارا سا چکتا -
 پانی توڑنا - پانی کا ٹٹنا - (۱) پانی گھٹنا (۲) پانی کا ٹٹ لینا (۳) بند یا ہر سے
 پانی چھوڑنا -
 پانی چراننا - (۱) محاورہ (۱) نرم کا پانی جذب کرنا (۲) پنے کھیت میں نا جان زور پانی
 لے جانا (۳) بلا اجازت پانی لے جانا (۴) حاصل جو نا - نطفہ حاصل جو نا - بوند پڑانا -
 پانی چوانا - (۱) محاورہ (۱) قطرہ قطرہ پانی کرنا - بوند بوند پانی چکانا -
 پانی چھا جوں برسنا - (۱) محاورہ (۱) ییز بارش جو نا -
 پانی دکھانا - (۱) محاورہ (۱) جانور کو پانی پلانا یا پانی کے پاس لے جانا -

لکنا (۳) جگہ سے ہٹا دینا۔

پاؤں اکھڑ جانا۔ (۱) عمارت، جگہ چھوڑ دینا۔ جٹ جانا۔ بھاگ نکلنا (۲) شکست تسلیم کرنا۔ باران جانا (۳) جنت لانا۔ حوصلہ ہار جانا (۴) قدم نہ چلنا۔

پاؤں اُٹھا پڑنا۔ (۱) عمارت، آگے جسنے کوئی نہ چاہتا۔ آگے جاتے ہوئے ڈرنا۔ پاؤں اُلجھنا۔ (۱) عمارت، کسی جگہ میں گرفتار ہو جانا۔

پاؤں بانڈھ رکھنا۔ (۱) عمارت، روک رکھنا۔ جانے نہ دینا۔

پاؤں باہر نکالنا۔ (۱) عمارت، (۲) حد سے بڑھنا (۳) حیثیت سے باہر قدم رکھنا (جسے سے زیادہ بات کرنا (۳) گھنڈ کرنا (۴) بد چلن ہونا (۵) گھر سے باہر جانا۔

پاؤں چھلنا۔ (۱) عمارت، (۲) پاؤں بٹکنا۔ پاؤں پھسلنا۔ پاؤں ڈگنا (۳) استقلال میں فرق آنا (۴) نیت بدلنا۔ ایمان میں فرق آنا۔

پاؤں بڑھانا۔ (۱) عمارت، (۲) قدم بڑھانا۔ جلدی جلدی چلنا (۳) آگے چلنا (۴) دخل بڑھانا۔ قبضہ کرنا (۴) اپنی حسد سے بڑھانا۔

پاؤں بھاری کرنا۔ (۱) عمارت، آدروفت موقوف کرنا (۲) نہ آنے کا ہمد کرنا۔ پاؤں بھاری ہونا۔ (۱) عمارت، ہونا۔ پیٹ سے ہونا (۲) جنت پست ہونا (۳) جانا (۴) رگ رگ کر چلنا۔

پاؤں بھٹکنا۔ (۱) عمارت، پاؤں کا ٹکڑھانا (۲) لغزش کرنا۔

پاؤں بھر جانا۔ (۱) عمارت، (۲) پاؤں تھرا جانا۔ پاؤں گندہ ہو جانا (۳) پاؤں سو جانا۔ پاؤں بیچ میں ہونا۔ (۱) عمارت، (۲) ذمہ داری ہونا (۳) دخل ہونا۔ مداخلت ہونا (۴) شراکت ہونا۔

پاؤں پاؤں۔ (۱) پیروں سے (۲) چلتے ہوئے۔

پاؤں پاؤں چلنا۔ (۱) اپنے پاؤں سے چلنا۔ پیادہ پا چلنا (۲) بچے کا بغیر سہارے کے چلنا۔

پاؤں پر پاؤں رکھ کر بیٹھنا (سوننا)۔ (۱) عمارت، بے ٹکری سے بسر کرنا۔ پیمین سے رہنا۔ پروا نہ کرنا۔

پاؤں پر پاؤں رکھنا۔ (۱) عمارت، (۲) سیدھے راستے چلنا (۳) قدم پر قدم رکھنا۔ پیچھے پیچھے چلنا (۴) پیروی کرنا۔ تقلید کرنا (۵) پاؤں کو پاؤں سے دباننا۔

پاؤں پر دو آٹنا۔ (۱) عمارت، قصور معاف کرنے کے لیے کسی کو قدموں پر بٹھکانا (۲) تریان کرنا۔

پاؤں پر سر بھجکانا۔ (۱) عمارت، عاجزی کرنا۔ خوشامد کرنا۔ (۲) پاؤں پر گرنا۔ پاؤں پر سر رکھنا۔ (۱) عمارت، (۲) پاؤں پر گرنا (۳) مجزوا نکار کرنا (۴) خوشامد کرنا۔

پاؤں پر سر رکھنا۔ (۱) عمارت، (۲) معافی مانگنا۔ منت سماجت کرنا (۳) معافی مانگنا۔

پاؤں پر سینچر سوار ہونا۔ (۱) آوارہ گرد ہونا۔ مارے مارے پھرنا۔ پاؤں پر کھڑے ہونا۔ (۱) عمارت، سنبھل جانا۔ بیچ جانا۔

پاؤں پر گرنا۔ (۱) عمارت، مجزوا نکار کرنا۔ خوشامد کرنا۔ تقسیم سے پیش آنا۔ پاؤں پر لوٹنا۔ (۱) عمارت، عاجزی کرنا۔

پاؤں پڑنا۔ (۱) عمارت، پاؤں پر سر رکھنا۔ نہایت عاجزی کرنا۔ پاؤں پسا رنا۔ (۱) عمارت، (۲) پاؤں پھیلنا۔ ٹانگیں بٹی کرنا (۳) ضد کرنا۔ جٹ کرنا۔

پاؤں پھیل جانا (۳) انتقال کرنا (۴) آرام کرنا۔ لیٹنا (۵) خواہش کرنا۔ پاؤں پکڑنا۔ (۱) عمارت، (۲) پناہ چاہنا۔ مدد چاہنا۔ معافی مانگنا (۳) پناہ میں آنا۔

(۳) نہایت منت سماجت کرنا (۴) تقسیم کرنا (۵) بہت خاطر مدارت کرنا۔

پاؤں پوچھنا۔ (۱) عمارت، بہت عزت کرنا (ظننا) قائل کرنا۔

پاؤں پھٹنا۔ (۱) عمارت، پاؤں پر زخم ہو جانا۔ پاؤں میں برائی نکل آنا۔

پاؤں پھسلنا۔ (۱) عمارت، (۲) قدم ڈگنا۔ لغزش ہونا (۳) لالچ آنا۔ بی چاہنا۔ خواہش کرنا۔

پاؤں پھینسا۔ (۱) عمارت، (۲) کسی چیز میں پاؤں اٹک جانا یا پھنس جانا (۳) کسی معاملے میں پھنس جانا۔

پاؤں پھولنا۔ (۱) عمارت، (۲) پاؤں میں سوجن ہو جانا (۳) کم زور ہو جانا۔ طاقت نہ رہنا (۴) جنت ہارنا۔ حوصلہ نہ پڑنا (۴) امکان ہونا۔ ٹھکانا۔

پاؤں پھونک پھونک کر رکھنا۔ (۱) عمارت، احتیاط کرنا۔ پھنا۔ پرہیز کرنا۔ احتراز کرنا۔ ڈرنا۔

پاؤں پھیرنے جانا۔ (۱) عمارت، زنگی یا شادی کے بعد عورت کا اپنے میکے میں چند روز کے لیے جانا۔

پاؤں پھیلا کر سونا۔ (۱) عمارت، (۲) لیے پاؤں کر کے سونا (۳) آرام سے سونا۔ لیے نکر ہو جانا۔

پاؤں پھیلا نا۔ (۱) عمارت، (۲) چلنا۔ مندر کرنا (۳) لالچ کرنا۔

پاؤں پھیلاٹے پڑے رہنا۔ (۱) عمارت، سست ہو جانا۔ کابل ہو جانا۔ بھول ہو جانا۔

پاؤں پیٹ پیٹ کر مرنا۔ (۱) عمارت، اڑیاں رگڑ رگڑ کرنا۔ نہایت ڈکھ اور مصیبت سے مرنا۔ بہت تکلیف سے مرنا۔

پاؤں پھینا۔ (۱) عمارت، (۲) تکلیف اور اضطراب کے باعث پاؤں دے دے مارنا (۳) کمال سختی سے جان دینا (۴) نزع کی حالت میں ہونا (۵) ذلیل خواہ مخواہ

پاؤں پیچھے بٹھنا۔ (۱) عمارت، (۲) بھاگنے کے آثار ظاہر ہونا (۳) ثابت قدمی میں فرق آنا۔

پاؤں تلے بیٹھنے کی مثال۔ (۱) نہایت ادنیٰ بہت کم زور۔ بے حد ذلیل کیفیت۔ بے بس۔

پاؤں تلے کی زمین (مسرک) نکل جانا۔ (۱) عمارت، (۲) ہوش اڑ جانا۔ پھٹکا ہونا۔ اوسان جاتے رہنا۔ حواس باقی نہ رہنا (۳) لرزنا۔ لاپنٹا۔ ڈگنا (۴) نہایت ڈرنا۔

پاؤں تلے کی مٹی نکل جانا۔ (۱) عمارت، دیکھے "پاؤں تلے کی زمین نکل جانا" پاؤں تلے ٹلنا۔ (۱) عمارت، (۲) پاؤں سے روندنا (۳) تکلیف دینا (۴) تباہ و برباد کرنا۔

پاؤں توڑ کر بیٹھنا۔ (۱) عمارت، (۲) پاؤں سے زمین نکل جانا۔ پھٹکا ہونا۔ (۱) عمارت، (۲) ہوش اڑ جانا۔ پھٹکا ہونا۔ (۱) عمارت، (۲) ہوش اڑ جانا۔ پھٹکا ہونا۔ (۱) عمارت، (۲) ہوش اڑ جانا۔ پھٹکا ہونا۔

پاؤں توڑنا۔ (۱) عمارت، (۲) پاؤں سے زمین نکل جانا۔ پھٹکا ہونا۔ (۱) عمارت، (۲) ہوش اڑ جانا۔ پھٹکا ہونا۔ (۱) عمارت، (۲) ہوش اڑ جانا۔ پھٹکا ہونا۔

پاؤں توڑنا۔ (۱) عمارت، (۲) پاؤں سے زمین نکل جانا۔ پھٹکا ہونا۔ (۱) عمارت، (۲) ہوش اڑ جانا۔ پھٹکا ہونا۔ (۱) عمارت، (۲) ہوش اڑ جانا۔ پھٹکا ہونا۔

پاؤں توڑنا۔ (۱) عمارت، (۲) پاؤں سے زمین نکل جانا۔ پھٹکا ہونا۔ (۱) عمارت، (۲) ہوش اڑ جانا۔ پھٹکا ہونا۔ (۱) عمارت، (۲) ہوش اڑ جانا۔ پھٹکا ہونا۔

پاؤں توڑنا۔ (۱) عمارت، (۲) پاؤں سے زمین نکل جانا۔ پھٹکا ہونا۔ (۱) عمارت، (۲) ہوش اڑ جانا۔ پھٹکا ہونا۔ (۱) عمارت، (۲) ہوش اڑ جانا۔ پھٹکا ہونا۔

پاؤں ٹکانا۔ (۱- محاورہ) (۱) ٹھیرنا۔ قیام کرنا (۲) دم لینا۔ سانس لینا (۳) پاؤں دھرنا (۴) قبضہ کرنا۔ قابو میں لانا (۵) ٹھکانا بنانا۔

پاؤں جمانا۔ (۱- محاورہ) (۱) قبضہ کرنا۔ قائم ہونا (۲) ہمت کرنا۔ استقلال کرنا۔ (۳) سہارا دھونڈنا (۴) امیدوار ہونا (۵) تعلق پیدا کرنا (۶) پاؤں رکھنا۔

پاؤں جھٹا۔ (۱- محاورہ) بات پر قائم رہنا (۲) میدان جنگ میں ڈٹے رہنا۔ اثر ہونا۔ رٹوخ ہونا۔

پاؤں جھٹانا۔ (۱- محاورہ) پاؤں کا سنبھالنا۔ پاؤں میں سنسنا ہٹ ہونا۔

پاؤں چینی کرنا۔ (۱- محاورہ) ٹانگیں دانا۔ ٹانگیں بھڑکانا۔

پاؤں چلنا۔ (۱- محاورہ) (۱) پینے کا پینے قدموں سے چلنا (۲) پیدل چلنا۔ (۳) لاپس پڑنا۔

پاؤں چومنا۔ (۱- محاورہ) (۱) پاؤں کا بوسہ دینا (۲) تعظیم کرنا۔

پاؤں چھلنی ہونا۔ (۱- محاورہ) (۱) پاؤں میں آبلے ٹوٹنے سے سوراخ پڑ جانا۔ (۲) بہت زیادہ چلنا۔

پاؤں چھنچھننا (چھوٹنا)۔ (۱- محاورہ) (۱) جین کا کثرت سے جاری ہونا۔ ایام سے ہونا (۲) فراغت پانا۔ برقی التعمیر ہونا۔ آزاد ہونا (۳) بے تعلق ہونا (۴) پابندی نہ رہنا (۵) آوارہ ہونا۔

پاؤں داہنا۔ (۱- محاورہ) پاؤں چینی کرنا۔

پاؤں درمیان سے نکال لینا۔ (۱- محاورہ) تعلق نہ رکھنا۔ ذمہ داری ہٹ لینا۔

پاؤں ڈوری۔ (۱- محاورہ) (۱) دوڑ دھوپ۔ ہمت۔ کوشش۔

پاؤں دھرنے کو جگہ ملنا۔ (۱- محاورہ) آسرا ملنا۔ سہارا ملنا۔

پاؤں دھو دھو کر پینا۔ (۱- محاورہ) (۱) تعظیم و تکریم کرنا۔ بہت عزت کرنا (۲) بے حد خوشیاں دیکرنا (۳) امید رکھنا۔ تمنا کرنا۔ بہت پیار کرنا (۴) بہت تلووں سے پیش آنا۔ (۵) حکم ماننا (۶) بہت خدمت کرنا۔

پاؤں ڈالنا۔ (۱- محاورہ) (۱) آنا ڈگانا۔ شروع کرنا (۲) کسی کام میں دخل دینا۔

پاؤں ڈگکانا۔ (۱- محاورہ) پاؤں کا لغزش کرنا۔ پاؤں قائم نہ رہنا۔ ہمت ڈالنا۔

پاؤں رکاب میں ہونا۔ (۱- محاورہ) چلنے کو تیار ہونا۔ مستعد ہونا۔

پاؤں رگڑنا۔ (۱- محاورہ) (۱) پاؤں ملنا (۲) آوارہ پھرنا۔ سرگرداں ہونا (۳) نزاع کی حالت میں ہونا (۴) خوشیاں دیکرنا۔ مستی کرنا۔

پاؤں رہ جانا۔ (۱) ٹھک جانا۔ (۲) عاجز ہونا (۳) پاؤں شل ہو جانا۔ ٹانگیں ناکارہ ہو جانا۔

پاؤں زمین پر نہ ٹھیرنا۔ (۱- محاورہ) (۱) پاؤں میں لغزش ہونا۔ لاپسنا۔ ڈگکانا۔

(۲) بے چین ہونا (۳) سسر میں رہنا (۴) نہایت مصروف ہونا (۵) مضروب ہونا۔

تخت ہونا۔

پاؤں زمین پر نہ رکھنا۔ (۱- محاورہ) بہت اترنا۔ ناز کرنا۔

پاؤں سر پر رکھ کر بھاگنا۔ (۱- محاورہ) بے حاشا بھاگنا۔ بدحواس ہو کر بھاگنا۔

پاؤں سر کرنا۔ (۱- محاورہ) استقلال میں فرق آنا۔ قدم جھٹنا۔

پاؤں سکیڑنا۔ (۱- محاورہ) (۱) پاؤں بٹ لینا۔ گناہ کبھی کرنا۔ قطع تعلق کرنا۔

پاؤں سنسنا۔ (۱- محاورہ) ضعف اور سستی سے پاؤں میں سونیاں سی جھٹنا۔

پاؤں سما جانا۔ سما جانا۔ قدموں پر کھڑے ہو جانا۔ اپنے پاؤں سے چلنا۔

پاؤں سن ہو جانا۔ (۱- محاورہ) پاؤں میں دوران خون ٹک جانا۔ پاؤں کا

بے حس و حرکت ہو جانا۔

پاؤں سے کلی سر میں کھجی۔ (۱) بہت غصہ آیا۔ تن بدن جل گیا۔

بہت جھن پیدا ہوئی۔ بہت جھلٹا ہٹ ہوئی۔

پاؤں شل ہو جانا۔ (۱- محاورہ) بہت ٹھک جانا۔

پاؤں کا ٹھپیں دینا۔ (۱- محاورہ) تیکہ کرنا۔ پیرٹی ڈالنا۔

پاؤں کٹ جانا۔ (۱- محاورہ) (۱) پاؤں نلک ہونا (۲) آمدورفت بند ہونا (۳) دُنیائے اٹھ جانا۔

پاؤں کو بوسہ دینا۔ (۱- محاورہ) بہت عزت و تکریم کرنا۔ عقیدت کا اظہار کرنا۔

پاؤں کھل جانا۔ (۱- محاورہ) چلنے کی طاقت آجانا۔ آمدورفت میں جھک نہ رہنا۔

پاؤں کھینچ لینا۔ (۱- محاورہ) ذمہ داری سے علیحدہ ہو جانا۔ علیحدگی اختیار کرنا۔

پاؤں کہیں سے کہیں پڑنا۔ (۱- محاورہ) نشہ۔ اضطراب۔ گھبراہٹ یا بہت تشویش سے پاؤں اُدھر اُدھر پڑنا۔

پاؤں کی آہٹ۔ (۱- محاورہ) چلنے کی آواز۔ چاپ۔

پاؤں کی پیڑی۔ (۱) جبری (۲) زنجیر۔ قید۔ پھیل (۳) مدک۔ مزاحمت (۴) بال بچے۔ بھیا بھیا بیٹی۔

پاؤں کی جونی۔ (۱- محاورہ) (۱) پاؤں۔ جوتا (۲) جورو۔ جوری (۳) خادم۔ نظام (۴) خوشامدی۔ جی جنوری (۵) نالائق (۶) ذلیل۔ حقیر۔ بے عزت۔

(۷) سنج۔ ریڈیل۔

پاؤں کی جوتی سر کو لگنا۔ (۱- محاورہ) (۱) کینے کا مرنے لگنا۔ ریڈیل کا سر پڑنا۔

(۲) کین اور سنج شخص کو شریف کے برابر درجہ ملنا۔

پاؤں کی خاک ہونا۔ (۱- محاورہ) بہت بچے وقعت ہونا۔ ذلیل ہونا۔

پاؤں کے نیچے کی مٹی بھی اسی نہ ہوگی۔ (دش) کوئی مناسب نہیں۔

کوئی تعلق نہیں۔ زمین آسمان کا فرق ہے۔

پاؤں گاڑنا۔ (۱- محاورہ) قدم جمانا۔

پاؤں گردش میں ہونا۔ (۱- محاورہ) مارے مارے پھرنا (۲) کوئی کام نہ بننا (۳) بد نصیب ہونا۔

پاؤں گن گن کر رکھنا۔ (۱- محاورہ) (۱) پھر پھر کر چلنا (۲) نخرے سے چلنا۔ (۳) احتیاط سے چلنا۔

پاؤں گور میں اٹکانے بیٹھے ہیں۔ (۱) مرنے کو تیار ہیں ترقیب۔ مرگ ہیں (۲) بہت بیمار ہیں (۳) بہت کم زور ہیں۔ بہت لڑھے ہیں۔

پاؤں گھسنا۔ (۱- محاورہ) (۱) زیادہ دوڑ دھوپ سے پاؤں کا ٹھکانا (۲) ناخوشیاں دوڑ دھوپ کرنا۔

پاؤں کا گھسنا۔ (۱- محاورہ) زمانہ صل میں گن گنے سے بچنے کے کسی عضو کا ناقص رہ جانا۔

پاؤں لٹکھڑانا۔ (۱- محاورہ) (۱) پاؤں ڈگکانا۔ پاؤں ہتھرتانا۔

پاؤں لگانا۔ پاؤں چھوڑنا۔ پاؤں مارنا۔ ٹھوکر مارنا۔ پاؤں رکھنا۔

پاؤں لینا۔ (۱- محاورہ) قدم لینا۔ آداب بجالانا۔ عاجزی کرنا۔

پاؤں مرید۔ (۱) ف۔ صفت۔ غلام۔ تابع۔ طبع۔ معتقد۔ فرماں بردار۔

پاؤں میں پیڑی پڑنا۔ (۱- محاورہ) (۱) شادی ہونا (۲) منگنی ہونا (۳) قید ہونا۔

پاؤں میں جوتی نہ سر پر ٹوٹی۔ (اشش، ۱۱) بہت زیادہ عزیبی اور منگی کی حالت (۲) پریشان اور مصیبت زدہ۔

پاؤں میں چکر ہونا۔ (۱) محاورہ) پاؤں میں گردش ہونا۔ مارے مارے پھرنا۔ پاؤں میں سرگردانا۔ (۱) محاورہ) نہایت عاجزی کرنا۔ بے حد خراب کرنا۔ پاؤں میں کیا ہنسی لگی ہے؟ کیا فند ہے۔ کون سی مجبوری ہے۔ انکار کی کیا وجہ ہے نہ جانے یا نہ آنے کا کیا سبب ہے۔

پاؤں میں ہنسی لگنا۔ (۱) محاورہ) عذر ہونا۔ بہانہ ہونا۔ جیلہ ہونا۔ سبب ہونا۔ عذر لنگ ہونا۔

پاؤں نکالنا۔ (۱) محاورہ) باہر قدم رکھنا۔ بڑھ کر چلنا (۲) سرکشی کرنا۔ تردد کرنا۔ باغی ہونا۔

پاؤں نہ دھو لانا۔ (۱) محاورہ) اپنی خدمت اور غلامی کے قابل نہ سمجھنا۔ بہت کراہت اور حقارت سے دیکھنا۔ خاطر میں نہ لانا۔ پاؤں نہ رکھنا۔ (۱) محاورہ) نہ جانا۔ قدم نہ رکھنا (۲) غرور کرنا۔ پاؤں نہ ہونا۔ (۱) محاورہ) مقابلے کی طاقت نہ ہونا۔ مقابلے کی تاب نہ لانا۔ پاؤں نہ۔ (Pound) پاؤں۔ (۱) انگ (۱) ایک انگریزی سکہ جو بارہ تیرہ روپے کے برابر ہوتا ہے (۲) ایک انگریزی وزن جو آٹھ پیر کے برابر ہوتا ہے۔

پائی۔ (پا، ای، ۱)۔ (۱) مسٹ (۱) آنے کا بارھواں حصہ۔ پیسے کا تیسرا حصہ (۲) اناج کا ایک پیمانہ۔

پائے۔ (پا، اسے)۔ (۱) پاؤں۔ پگ۔ قدم۔ پا۔

پائے بند یا بند۔ (۱) مسٹ، (۱) مقید۔ گرفتار (۲) عادی۔ جوگ۔

پائے تخت۔ (۱) مسٹ، (۱) ریاست کا صدر مقام۔ دارالخلافہ۔ دارالسلطنت راج دھانی۔ بادشاہ کے رہنے کا مقام۔

پائے ثبات۔ (۱) مسٹ، (۱) استقلال۔ ثبات قدمی۔

پائے ثبات میں لغزش آنا۔ (۱) اشش، مضبوط ارادے سے بھی ڈانوں ڈول ہو جانا۔

پائے در گل۔ (۱) مثل، (۱) دل میں پاؤں۔ مقید۔ بے بس۔ دنیا کے دھندوں میں پھنسا ہوا۔

پائیدار۔ (۱) مسٹ، (۱) مضبوط۔ پختہ۔ بگا۔ دیر پا۔ مستحکم۔

پائیداری۔ (۱) مسٹ، (۱) استحکام۔ مضبوطی۔

پائیدان۔ (۱) مسٹ، (۱) کنش (۲) جوتی اتارنے کی جگہ (۳) ہوارہ (۴) گاڑی کی وہ جگہ جس پر پاؤں رکھ کر سوار ہوتے ہیں۔

پائے رفتن نہ جانے ماندن۔ (۱) مسٹ، (۱) عتولہ) نہ جانے کی طاقت نہ رہنے کی جگہ نہ جاتے ہیں بڑے نہ ٹھیرتے۔

پائے کاشت۔ (۱) مسٹ، (۱) وہ کاشت جو دوسری جگہ کا آدمی کسی گاؤں میں کرے۔

پائے گا۔ یا لگہ۔ (۱) مسٹ، (۱) مرتہ (۲) طویل (۳) صلیب (۴) پکھری۔ اجلاس (۲) جھولتی ریاست۔

پائے گدا لنگ نیست۔ لنگ خدا لنگ نیست۔ (۱) مسٹ، (۱) مانگنے والے کے لیے سارا جہان پڑا ہے جہاں چاہے مانگتا پھرے۔

پائے مال۔ یا مال۔ (۱) مسٹ، (۱) رونما ہوا۔ لگلا ہوا۔

پائے مالی۔ (۱) مسٹ، (۱) تباہی، بربادی۔ پاؤں سے رونما۔

پائے نظر (نگاہ) پھسلنا۔ (۱) محاورہ) نظر کا نہ ٹھیرنا۔ نظر بھر کر نہ دیکھ سکا۔

پائے ہمت کاڑنا۔ (۱) محاورہ) ثابت قدم رہنا۔ استقلال قائم رکھنا۔

پائیز۔ (۱) ایبز، (۱) سن۔ (۱) مذ) موسم خزاں۔ پت بھر کا موسم۔

پائیل۔ (۱) مسٹ، (۱) مذ) ایسا پتہ جس کی ولادت پاؤں کی طرف سے ہو۔

پائیں۔ (۱) مسٹ، (۱) سن۔ (۱) مذ) نیچے۔ پائنتی۔ سمرانے کے مقابل۔

پائیں باغ۔ (۱) مسٹ، (۱) مذ) پٹلی کے نیچے کا باغ۔ باغ زیر عمل۔ مکان کے پیچھے کا باغ۔

پائینت۔ (۱) مسٹ، (۱) ادواہین)۔ پائنتی۔ پاؤں کی طرف کا پنگ کا حصہ۔

پائنتی۔ (۱) مسٹ، (۱) مذ) پنگ یا چا پرائی کا پاؤں کی طرف کا حصہ۔

پائینچا۔ (۱) مسٹ، (۱) مذ) پانچ۔ ٹانگ کا غلاف۔ پاجامے کا وہ حصہ جس میں ٹانگ بنتی ہے۔

پائینچا بھاری کرنا۔ (۱) محاورہ) گوشہ نشین ہونا۔ گھر سے باہر نہ نکلنا۔ ایک جگہ بیٹھ جانا۔ خانہ نشینی کرنا۔

پائینچا سے باہر نکلی پڑتی ہے۔ (۱) محاورہ) نعتے میں آپے سے باہر ہوتی جاتی ہے۔

پایاں۔ (۱) مسٹ، (۱) مذ) آخر انجام۔

پائیک۔ (۱) مسٹ، (۱) مذ) پیک۔ پیام بڑ۔ ایلچی۔ سفیر۔ ہر کارہ۔ چچی رساں۔ (۲) پیادہ۔ ہیل۔

پائیل۔ (۱) مسٹ، (۱) مذ) پاؤں۔ ایک گھوڑوں دار زبور جو پاؤں میں پہنا جاتا ہے (۲) پاؤں کے بل پیدا ہونے والا پتہ (۳) تیز رو باغی۔

پایہ۔ (۱) مسٹ، (۱) مذ) پاؤں۔ قدم (۲) زمین۔ قدمچہ (۳) درجہ۔ رتبه۔ منصب۔ عزت (۴) چو پائے کا پاؤں۔

پایہ بہ پایہ۔ (۱) مسٹ، (۱) مذ) درجہ بہ درجہ۔

پایہ بلند ہونا۔ (۱) محاورہ) مرتبہ بڑھانا۔

پایہ تخت۔ (۱) مسٹ، (۱) مذ) راج دھانی۔ دارال حکومت۔

پایہ ثبوت کو پہنچنا۔ ثابت ہونا۔

پایہ شناس۔ (۱) مسٹ، (۱) مذ) رتبه شناس۔ رتبه کو پہچاننے والا۔

پایہ شناسی۔ (۱) مسٹ، (۱) مذ) مرتبہ شناسی۔ مرتبہ کو پہچانا۔

پایہ عرش ہلانا۔ (۱) محاورہ) عرش تک اتر پہنچنا۔ فریاد کرنا۔ خدا سے منت و زاری کرنا۔

پایہ پر کھینچنا۔ (۱) محاورہ) تینے یا بندوق کے گھوڑے کو اس کی حد تک کھینچنا۔

پائیدہ۔ (۱) مسٹ، (۱) مسٹ) استوار۔ قائم۔

پائیدہ باد۔ (۱) مسٹ، (۱) مسٹ) استوار رہے۔ قائم رہے۔

پ-ب

پب۔ (۱) مسٹ، (۱) مسٹ) رتبه شناس۔ رتبه کو پہچاننے والا۔

پچوٹا (پ۔ پوٹا) (۱-۵) مذ [جسم کا وہ حصہ جو آنکھ سے بلا ہوا ہوتا ہے۔ آنکھ کا خلاف
 نیام چشم۔ پشت چشم۔
 پچوٹا بھرتا۔ (۱-۵) محاورہ) پچوٹے کا بھول جانا۔
 پچوٹا بھاری ہونا۔ (۱-۵) محاورہ) پچوٹے پر دردم ہونا۔
 پچوٹن۔ (پ۔ پوٹن) (۱-۵) مذ [ایک پر دسے کا نام جس کے پتے بطور دوا
 استعمال ہوتے ہیں۔
 پچوٹنا۔ (پ۔ پول۔ نا) (۱-۵) محص [چیز کو منہ میں پھرانا۔ بے دانت لگاتے رس
 پچوٹنا۔ پچلانا۔
 پچپٹیا۔ (پ۔ پی۔ یا) (۱-۵) مذ [آم کی گری نکالی ہوئی گٹھلی جسے بطور پی پی بجاتے
 ہیں۔ سیٹی (۲) نہایت تیز آواز جو باریک ہو۔
 پچپٹیا۔ (پ۔ پی۔ تا) (۱-۵) مذ [اندر۔ ایک پھل دار درخت جس میں شاخیں نہیں
 ہوتیں البتہ بڑے بڑے پتے ہوتے ہیں۔ اور بس کا پھل کھایا
 جاتا ہے۔
 پچپٹیا۔ (پ۔ یا۔ نا) (۱-۵) محص [پیپ پڑ جانا۔ زخم یا پھوڑے پھنسی کا
 پک جانا۔
 پچپٹیا۔ (پ۔ پی۔ یا) (۱-۵) مذ [زرد رنگ کا ایک خوش آواز پرند جو پی پی کی
 صدا لگاتا ہے۔

شاخ کرنے والا۔
 پبلک۔ (Public) (پب۔ بک) (۱-۵) مذ [عام۔ عام انسان
 تمام آدمی۔ کل خلقت (۲) عام۔ تمام۔ سب۔ جملہ۔
 پبلک انٹرکشن۔ (Public Instruction) تعلیم عام۔ محکمہ تعلیم
 کا صدر دفتر۔
 پبلک پراسیکیوٹر۔ (Public Prosecutor) سرکاری وکیل
 گورنمنٹ کی طرف سے کسی مقدمہ کی بیرونی کرنے والا۔
 پبلک سروس۔ (Public Service) (۱) سرکاری ملازمت
 (۲) عام لوگوں کی خدمت۔
 پبلک سروس کمیشن۔ (Public Service Commission)
 وہ بورڈ جو سرکاری عہدہ داروں کا انتخاب کرتا ہے۔
 پبلک ورکس۔ (Public Works) (۱) عام عام تعمیرات کا محکمہ۔
 پبلی۔ (پ۔ ب۔ ای) (۱-۵) مذ [ایک خوش آواز پرند جسے پبلی اور پبلی بھی
 کہتے ہیں۔
 پبلیانا۔ (پب۔ یا۔ نا) (۱-۵) محص [زخم میں پیپ پڑ جانا۔

پ پ

پت۔ (۱-۵) مذ [عذرت۔ آبرو (۲) ساکھ۔ اعتبار (۳) شوہر۔ بچی۔ عاوند۔
 (۴) لاج۔ شرم (۵) پات کا مخفف۔ برگ۔ پتا (۶) چاشنی۔ قوام۔
 پت آٹارنا۔ (۱-۵) محاورہ) (۱) چاشنی پکانا۔ قوام کرنا (۲) پتے توڑنا (۳)
 بے عزت کرنا (۴) ساکھ بگڑنا۔
 پت تھڑ۔ (۱-۵) مذ [خریف۔ خزان۔ پتوں کے جڑنے کا موسم۔
 پت رکھنا۔ (۱-۵) محاورہ) آبرو رکھنا۔ ساکھ رکھنا۔
 پت گھوٹنا۔ (۱-۵) محاورہ) آبرو گھوٹنا۔ بے عزت ہونا۔ ساکھ گھوٹنا۔
 پت۔ (۱-۵) مذ [صفرا۔ تلخ۔ چاروں خلطوں میں سے ایک خلط ہے۔ زرد رنگ
 کا کڑوا پانی جو پتے کے اندر ہوتا ہے۔
 پت ڈالنا۔ زرد رنگ کی تے کرنا تے میں صفرا نکلنا۔
 پت۔ (۱-۵) مذ [پوت کا مخفف۔ پتیر۔ بیٹا۔
 پتیا۔ (پ۔ تا) (۱-۵) مذ [(۱) نشان۔ علامت۔ سرائخ (۲) مقام۔ ٹھکانا (۳) اشارہ
 (۴) سرنام (۵) کتوبہ کا پورا نام اور جائے سکونت گھنا۔
 پتیا پوچھنا۔ (۱-۵) محاورہ) ٹھکانا دریافت کرنا۔ سرائخ لگانا۔
 پتیا لگانا۔ (۱-۵) محاورہ) تلاش کرنا۔ ڈھونڈنا۔ سرائخ لگانا۔
 پتیا ملنا۔ (۱-۵) محاورہ) سرائخ لگنا۔ نشان معلوم ہو جانا۔
 پتیا نکالنا۔ (۱-۵) محاورہ) سرائخ چلانا۔ نشان معلوم کر لینا۔
 پتے چرانا۔ (۱-۵) محاورہ) کسی نشان سے تلاش کرنا کسی نشان کے مطابق کھوج لگانا۔

پپرمنٹ۔ (Peppermint) (پ۔ پر۔ منٹ) (۱-۵) مذ [
 پورنہ کاسٹ۔
 پیپر۔ (پب۔ پز) (۱-۵) مذ [دیواری کھنگ کا وہ حصہ جو پھول کر علیحدہ ہو جاتا۔
 ہے (۲) پاٹرا۔
 پیپرا۔ (پب۔ ڈا) (۱-۵) مذ [(۱) پاٹرا۔ ایک پودا (۲) اوپر کا پھلکا۔ پھال۔
 پیپراٹا۔ پیپرا جانا۔ (پب۔ ڈا) (۱-۵) محاورہ) (۱) پاٹرا۔ جانا۔ (۲) آبر۔ مص [بالائی حصہ
 خشک ہو جانا۔ پیٹری بندھ جانا۔ کھڑ بڑ بندھ جانا۔ پیٹری جینا۔
 پیٹری۔ (پب۔ ڈی) (۱-۵) مذ [(۱) خشکی۔ کھڑ بڑ۔ اوپر کا خشک پرت۔
 سوکھا پودست (۲) پھوٹا یا پز (۳) حلوا سوہن کی ایک قسم۔
 پیٹری آٹا۔ (۱-۵) محاورہ) تر جینا۔ اوپر کا حصہ خشک ہو کر پرت کی شکل ہو جانا۔
 پیٹری بندھنا۔ (۱-۵) محاورہ) پڑانا۔ خشک ہو جانا۔
 پیٹری جمانا۔ (۱-۵) محاورہ) تر جمانا۔ حق قائم کرنا۔
 پیٹری جم جمانا۔ (۱-۵) محاورہ) کھٹے وغیرہ کا جمانا (۲) تر جمانا۔ پرت جمانا (۳)
 طائی جمانا۔
 پیٹریا کھٹا۔ (پب۔ پز۔ یا۔ کھٹ۔ قھا) (۱-۵) مذ [سفید اور ہلکے رنگ کا کھٹا۔
 کھٹے کی ایک قسم۔
 پیٹریلا۔ (پب۔ ڈی) (۱-۵) مذ [پرت والا۔ جھلکے والا۔ پیٹری والا۔
 پیپل۔ (پب۔ بیل) (۱-۵) مذ [(۱) پیپل (۲) انفس پرستی۔
 پیپلا۔ (پب۔ لا) (۱-۵) مذ [جس کے سر میں دانت نہ ہوں۔ پوپلا۔
 پیپلی۔ (پب۔ لی) (۱-۵) مذ [(۱) بلیج (۲) ایک قسم کی بوٹی۔
 پیپنی۔ (پب۔ نی) (۱-۵) مذ [پبلک۔ سڑکان۔

پتھر - ریت (تر۔س) - ۱۔ مذ (۱) برگ - پتا - دان (۲) پان (۳) پتھر - دست ویز - رُقعہ - پرچہ - خط (۴) طبق - تختہ (۵) سونے چاندی اور لوہے کے پتلے ٹکڑے۔
 پتھر - ریت (تر۔س) - ۱۔ مذ (۱) بیٹا - پسر - لڑکا - بچہ - پوتہ۔
 پتھر - ریت (تر۔س) - ۱۔ مذ (۱) تقویم - جہت - جہت - خط تقدیر (۲) درق - صفحہ - (۳) دعوات کا ٹکڑا۔
 پتھر سے کھولنا - (۱) عمارت - قلعہ کھولنا - راز ظاہر کرنا - عیب بیان کرنا حقیقت کا اعلان کرنا۔
 پتھر تالی - ریت - را - ای (س) - ۱۔ مٹ (۱) رشتہ دار - تین پشت سے باپ کی طرف سے رشتہ داری۔
 پتھر ننگا - ریت - بن - گا (۱) - ۵۔ مذ (۱) ایک پتھر یا۔
 پتھر نول - (Patrol) ریت - نول (انگ) - ۱۔ مذ (۱) رات کو گشت کرنے والی گاڑی۔ اصل لفظ پیٹرول ہے۔
 پتھری - ریت - ت - ری (س) - ۱۔ مٹ (۱) جھمی - خط (۲) خط تقدیر - زانچہ - جہم - کنڈلی (۳) جھوٹا ٹکڑا۔
 پتھری - ریت - ری (س) - ۱۔ مٹ (۱) پتلی۔
 پتھری - ریت - ت - ری (س) - ۱۔ مٹ (۱) لڑکی - ڈھتر - بیٹی۔
 پتھریا - (پ - تریا) - ۱۔ مٹ (۱) رنڈی - فاحشہ عورت - بیوا - کچی۔
 پتھریا کا ڈیرا جیسے کھولوں کا کھیرا - (۱) مٹ (۱) رنڈی کے گھر کا آدمی لٹ جانا ہے۔
 پتھلی - (پ - ت - کی) - ۱۔ مٹ (۱) ایک جھوٹا ترن - پتلی۔
 پتھل - (پتھ - تل) (س) - ۱۔ مٹ (۱) پتوں کی بنائی ہوئی تعالیٰ جس میں ہندو کھانا کھاتے ہیں - ایک آدمی کی خوراک۔
 پتھل پر وسنا - (۱) عمارت - پتھل میں کھانا رکھنا - پتوں کے تعالیٰ میں کھانے کی چیز چھیننا۔
 پتھل پھاڑی اور چل دیئے - (۱) مٹ (۱) مطلب نکالا اور چل دیئے۔
 پتھلا - (پتھ - لا) - ۱۔ مٹ (۱) رقیق - پہنے والا - عرق (۲) بادیک - ہلکا (۳) لافز - ڈبلا (۴) کم نذر (۵) نرم - نازک۔
 پتھلا حال کرنا - (۱) مٹ (۱) تنگ کرنا - ستانا (۲) بے حال کرنا (۳) بہت مارنا۔
 پتھلا حال ہونا - (۱) برا حال ہونا (۲) قریب مرگ ہونا - سفت بیمار ہونا۔
 (۳) ہنایت کم نذر ہونا (۴) لافز ہونا - ڈبلا ہونا (۵) رقیق ہونا (۶) مٹ (۱) کنگالی ہونا (۷) بے عزت ہونا۔
 پتھلا - (پتھ - لا) - ۱۔ مذ (۱) تصویر - پیکر - بت - صنم - مورتی (۲) جسم - تاب - ڈھانچہ - بے جان انسانی یا حیوانی مورت - مجسمہ (۳) قبضہ (۴) بہت خوبصورت - سخیلا - جوان - خوش رُو۔
 پتھلا کاڑنا - (۱) عمارت - ماش کے آٹے یا کسی اور چیز کا پتھلا بنا کر تسخیر کے لیے زمین میں دفن کرنا۔
 پتھلانا - ریت - لا - نا (۱) مٹ (۱) کسا ڈانا - کیا جانا - کھانے میں دعوات کا زہریلا اثر ہونا - کھانے میں دعوات کے برتن کے زہریلے مادے کا مسمومیت کر جانا۔
 پتھلون - (Pantaloons) ریت - لون (۱) راکر - ۱۔ مذ (۱) پینٹ

پتھلے کی سٹانا - (۱) عمارت - راز ناخ کرنا - عیب ظاہر کرنا - عیب کی کہنا - دعوات کہنا - ٹھیک کہنا (۲) چھٹی ہوئی کہنا - چوٹ کرنا۔
 پتھلا - ریت (تر۔س) - ۱۔ مذ (۱) برگ - پات - پتھر (۲) درق - پتا - کارڈ - جیسے تاش کا پتا (۳) کان کا ایک زبرد جو بالوں میں لٹکایا جاتا ہے۔
 پتھلا بندھنا - (۱) عمارت - زخم پر پتھلا بندھنا۔
 پتھلا بھی بے حکم خدا نہیں ملتا - (۱) مٹ (۱) کوئی کام بغیر خدا کی مرضی کے نہیں ہوتا۔
 پتھلا توڑ کر بھاگنا - (۱) عمارت - ہنایت تیز دوڑنا - پیچھے ہٹ کر نہ دیکھنا - رُو پیکر ہو جانا۔
 پتھلا کھڑکا بندہ سر کا (طشکا) - (۱) مٹ (۱) لکان یا عمارت اور چالاک آدمی کی نسبت دلتے ہیں۔
 پتھلا کھڑکنا - (۱) عمارت - (۲) پتے کی آواز ہونا - آہٹ ہونا (۳) اندیشہ ہونا - خوف ہونا۔
 پتھلا چلنا - (۱) عمارت - مزارع ملنا۔
 پتھلا دینا - (۱) عمارت - مزارع بتانا - نشان بتانا - ٹھکانا بتانا دینا۔
 پتھلے کی بات - (۱) مٹ (۱) چھٹی ہوئی بات۔
 پتھلا لگنا - (۱) عمارت - پھلوں میں داغ لگانا۔
 پتھلا نہ ملنا - (۱) عمارت - ہوا بند ہونا (۲) مٹ (۱) پتے نہ سرکنا۔
 پتھلا بلانا - (۱) عمارت - خیف حرکت دینا۔
 پتھلا (ہو جانا) ہونا - (۱) عمارت - بھاگ جانا - رُو پیکر ہو جانا - تیزی کے ساتھ بھاگنا۔
 پتھلوں والی - (۱) مٹ (۱) مٹی۔
 پتھلا - (پتھ - تا) - ۱۔ مذ (۱) جگر کے نیچے ایک چھوٹی پھیل جس میں پت جمع رہتی ہے (۱) مزار - ذہرہ - غلط صغیر کا مقام (۲) حوصلہ - ہمت (۳) غصہ - بوش - عمارت (۴) شرم - لاج - حیا (۵) خواہش نفسانی۔
 پتھلا پانی ہونا - (۱) عمارت - (۲) غصہ فرو ہونا (۳) بوش دب جانا - برداشت ہونا۔
 پتھلا لگانا - (۱) عمارت - کسی کام میں جی لگانا۔
 پتھلا مارنا - (۱) عمارت - (۲) غصہ دھک - بوش کو قابو کرنا (۳) دل پر جبر کرنا - سختی برداشت کرنا (۴) ہمت کرنا (۵) دل لگانا - محنت کرنا۔
 پتھلا ٹھرننا - (۱) عمارت - (۲) غصہ دھکا ہونا - تیزی نہ رہنا - گرمی نہ رہنا (۳) مزاج نرم ہو جانا (۴) صغیر کی ہو جانا (۵) ہمت نہ رہنا - حوصلہ کم ہو جانا۔
 پتھلا نکالنا - (۱) عمارت - (۲) جان نکال لینا (۳) تنگ کرنا (۴) بہت مارنا۔
 پتھلا - پاتھال - پتھال - (پ - تال) (پتھ - تال) (س) - ۱۔ مٹ (۱) زمین کا سب سے نیچے کا طبقہ۔
 پتھال جہت - آگ پر دھک کر کسی شے سے تیل نکالنے کا آلہ - آگ پر دھک کر تیل نکالنے کا طریقہ - گل محنت کرنا۔
 پتھال کی خمیر لانا - (۱) عمارت - بات کی تہ تک پہنچنا (۲) دور کی خبر لانا۔
 پتھلا - (پتھ - تانا) - ۱۔ مٹ (۱) حیران ہونا (۲) شرمندہ ہونا (۳) حواس باختہ ہونا۔
 پتھلا در - (پ - تا - در) - ۱۔ مذ (۱) چھتر بنانے کا پھوس۔
 پتھلا تالی - (پ - تا - ای) - ۱۔ مذ (۱) پوتے کی مزدوری - پتھر یا پانی کرنے کی اجرت۔

منزلی طرز کا پا جامہ (۲) جازا پا جامہ شلوار۔

پتلون ڈھیلی ہونا۔ (۱) جامدہ گھبرانا۔ بریشان ہونا (۲) بہت ڈار دینا۔ پتلی۔ (۳) صفت باریک۔ ہمیں۔

پتلی آواز۔ (۱) صفت باریک آواز۔

پتلی وال کھانے والا۔ (۱) جامدہ کم زور۔ بودا۔ کم بہت۔

پتلی کمر۔ (۱) صفت باریک اور نازک کمر۔

پتلی۔ (۱) بہت۔ (۲) ل۔ (۳) مٹا۔ (۴) پتلا کی تانیٹ (۵) گڑیا (۶) مٹی یا گھڑ کی جی ہوئی ٹورت۔ تار یا ڈورے کے ذریعہ سے ناپنے والی گڑیا (۷) مردک آنکھ کی سیاہی۔ آنکھ کا تل (۸) گھوڑے کے تلوے کا ابھار (۹) مٹین۔ گل۔

(۱۰) نہایت خوبصورت۔ نہایت حسین۔

پتلی پھیر لینا۔ (۱) جامدہ بے وفائی کرنا۔ بے مروتی کرنا۔

پتلی گھر۔ (۱) مذ کا رخا۔ کپڑے کا رخا۔

پتلیاں پھر جانا۔ (۱) جامدہ (۲) پتلی بڑھ جانا۔ مردک چشم کا اوپر کو ہوجانا۔

(۳) حالت غیر ہوجانا۔ مرنے کے قریب ہوجانا۔

پتلیاں بچھانا۔ (۱) جامدہ پتلیوں کا تماشا کرنا (۲) آنکھیں مٹکانا۔ آنکھوں کے اشارے کرنا۔

پتلیوں کا تماشا۔ گڑیوں کا کھیل۔ پتلیوں کا کھیل۔ تصویروں کا کھیل۔

پتلیوں میں گھر کرنا۔ (۱) جامدہ بہت عزیز ہونا۔ پیار ہونے کی جگہ۔

پتلی۔ (۱) ہم۔ (۲) مذ۔ (۳) مذ۔ (۴) مذ۔ (۵) مذ۔ (۶) مذ۔ (۷) مذ۔ (۸) مذ۔ (۹) مذ۔ (۱۰) مذ۔

پتلی۔ (۱) بہت۔ (۲) مذ۔ (۳) مذ۔ (۴) مذ۔ (۵) مذ۔ (۶) مذ۔ (۷) مذ۔ (۸) مذ۔ (۹) مذ۔ (۱۰) مذ۔

پتلی۔ (۱) صفت سفید ہونا۔ پوری ہونا۔ بھار پھرنا۔ مٹی ہونا۔

پتنگ۔ (۱) بہت۔ (۲) مذ۔ (۳) مذ۔ (۴) مذ۔ (۵) مذ۔ (۶) مذ۔ (۷) مذ۔ (۸) مذ۔ (۹) مذ۔ (۱۰) مذ۔

پتنگ اڑانا۔ (۱) جامدہ کنگو اڑانا۔

پتنگ بازی۔ (۱) مذ۔ (۲) مذ۔ (۳) مذ۔ (۴) مذ۔ (۵) مذ۔ (۶) مذ۔ (۷) مذ۔ (۸) مذ۔ (۹) مذ۔ (۱۰) مذ۔

پتنگ اڑانا۔ (۱) جامدہ کنگو اڑانا۔

پتنگ چھری۔ (۱) صفت مٹا۔ (۲) تیز۔ (۳) تند۔ چالاک (۴) ترازو۔ لگائی

بجھائی کرنے والی۔

پتنگ دھا دینا۔ (۱) جامدہ بڑھے ہونے کنگو کو گرا دینا۔

پتنگ کٹ جانا۔ (۱) جامدہ (۲) کنگو کی ڈور کا کٹ جانا (۳) ہمیں سے نکالا جانا۔

پتنگ۔ (۱) بہت۔ (۲) مذ۔ (۳) مذ۔ (۴) مذ۔ (۵) مذ۔ (۶) مذ۔ (۷) مذ۔ (۸) مذ۔ (۹) مذ۔ (۱۰) مذ۔

پتنگ۔ (۱) بہت۔ (۲) مذ۔ (۳) مذ۔ (۴) مذ۔ (۵) مذ۔ (۶) مذ۔ (۷) مذ۔ (۸) مذ۔ (۹) مذ۔ (۱۰) مذ۔

پتنگ لگنا۔ (۱) جامدہ (۲) مردک لگنا۔ رشک ہونا۔ حسد ہونا (۳) غصے ہونا

آگ بگولا ہونا۔ سخت ناراض ہونا۔

پتلی۔ (۱) بہت۔ (۲) ل۔ (۳) مٹا۔ (۴) مٹی۔ (۵) مٹی۔ (۶) مٹی۔ (۷) مٹی۔ (۸) مٹی۔ (۹) مٹی۔ (۱۰) مٹی۔

پتوار۔ پتوال۔ (۱) بہت۔ (۲) مذ۔ (۳) مذ۔ (۴) مذ۔ (۵) مذ۔ (۶) مذ۔ (۷) مذ۔ (۸) مذ۔ (۹) مذ۔ (۱۰) مذ۔

سکات کشتہ کاؤن مرنے کی کڑی۔

پتواس۔ (۱) بہت۔ (۲) مذ۔ (۳) مذ۔ (۴) مذ۔ (۵) مذ۔ (۶) مذ۔ (۷) مذ۔ (۸) مذ۔ (۹) مذ۔ (۱۰) مذ۔

بیٹھے کا اڈا۔

پتوہ۔ پتوہ ہو۔ (۱) بہت۔ (۲) مذ۔ (۳) مذ۔ (۴) مذ۔ (۵) مذ۔ (۶) مذ۔ (۷) مذ۔ (۸) مذ۔ (۹) مذ۔ (۱۰) مذ۔

پتوہ۔ (۱) بہت۔ (۲) مذ۔ (۳) مذ۔ (۴) مذ۔ (۵) مذ۔ (۶) مذ۔ (۷) مذ۔ (۸) مذ۔ (۹) مذ۔ (۱۰) مذ۔

پتوہ۔ (۱) بہت۔ (۲) مذ۔ (۳) مذ۔ (۴) مذ۔ (۵) مذ۔ (۶) مذ۔ (۷) مذ۔ (۸) مذ۔ (۹) مذ۔ (۱۰) مذ۔

پتوہ۔ (۱) بہت۔ (۲) مذ۔ (۳) مذ۔ (۴) مذ۔ (۵) مذ۔ (۶) مذ۔ (۷) مذ۔ (۸) مذ۔ (۹) مذ۔ (۱۰) مذ۔

پتوہ۔ (۱) بہت۔ (۲) مذ۔ (۳) مذ۔ (۴) مذ۔ (۵) مذ۔ (۶) مذ۔ (۷) مذ۔ (۸) مذ۔ (۹) مذ۔ (۱۰) مذ۔

پتوہ۔ (۱) بہت۔ (۲) مذ۔ (۳) مذ۔ (۴) مذ۔ (۵) مذ۔ (۶) مذ۔ (۷) مذ۔ (۸) مذ۔ (۹) مذ۔ (۱۰) مذ۔

پتوہ۔ (۱) بہت۔ (۲) مذ۔ (۳) مذ۔ (۴) مذ۔ (۵) مذ۔ (۶) مذ۔ (۷) مذ۔ (۸) مذ۔ (۹) مذ۔ (۱۰) مذ۔

پتوہ۔ (۱) بہت۔ (۲) مذ۔ (۳) مذ۔ (۴) مذ۔ (۵) مذ۔ (۶) مذ۔ (۷) مذ۔ (۸) مذ۔ (۹) مذ۔ (۱۰) مذ۔

پتوہ۔ (۱) بہت۔ (۲) مذ۔ (۳) مذ۔ (۴) مذ۔ (۵) مذ۔ (۶) مذ۔ (۷) مذ۔ (۸) مذ۔ (۹) مذ۔ (۱۰) مذ۔

پتوہ۔ (۱) بہت۔ (۲) مذ۔ (۳) مذ۔ (۴) مذ۔ (۵) مذ۔ (۶) مذ۔ (۷) مذ۔ (۸) مذ۔ (۹) مذ۔ (۱۰) مذ۔

پتوہ۔ (۱) بہت۔ (۲) مذ۔ (۳) مذ۔ (۴) مذ۔ (۵) مذ۔ (۶) مذ۔ (۷) مذ۔ (۸) مذ۔ (۹) مذ۔ (۱۰) مذ۔

پتوہ۔ (۱) بہت۔ (۲) مذ۔ (۳) مذ۔ (۴) مذ۔ (۵) مذ۔ (۶) مذ۔ (۷) مذ۔ (۸) مذ۔ (۹) مذ۔ (۱۰) مذ۔

پتوہ۔ (۱) بہت۔ (۲) مذ۔ (۳) مذ۔ (۴) مذ۔ (۵) مذ۔ (۶) مذ۔ (۷) مذ۔ (۸) مذ۔ (۹) مذ۔ (۱۰) مذ۔

پتوہ۔ (۱) بہت۔ (۲) مذ۔ (۳) مذ۔ (۴) مذ۔ (۵) مذ۔ (۶) مذ۔ (۷) مذ۔ (۸) مذ۔ (۹) مذ۔ (۱۰) مذ۔

پتوہ۔ (۱) بہت۔ (۲) مذ۔ (۳) مذ۔ (۴) مذ۔ (۵) مذ۔ (۶) مذ۔ (۷) مذ۔ (۸) مذ۔ (۹) مذ۔ (۱۰) مذ۔

پتوہ۔ (۱) بہت۔ (۲) مذ۔ (۳) مذ۔ (۴) مذ۔ (۵) مذ۔ (۶) مذ۔ (۷) مذ۔ (۸) مذ۔ (۹) مذ۔ (۱۰) مذ۔

پتوہ۔ (۱) بہت۔ (۲) مذ۔ (۳) مذ۔ (۴) مذ۔ (۵) مذ۔ (۶) مذ۔ (۷) مذ۔ (۸) مذ۔ (۹) مذ۔ (۱۰) مذ۔

پتوہ۔ (۱) بہت۔ (۲) مذ۔ (۳) مذ۔ (۴) مذ۔ (۵) مذ۔ (۶) مذ۔ (۷) مذ۔ (۸) مذ۔ (۹) مذ۔ (۱۰) مذ۔

پتوہ۔ (۱) بہت۔ (۲) مذ۔ (۳) مذ۔ (۴) مذ۔ (۵) مذ۔ (۶) مذ۔ (۷) مذ۔ (۸) مذ۔ (۹) مذ۔ (۱۰) مذ۔

پتوہ۔ (۱) بہت۔ (۲) مذ۔ (۳) مذ۔ (۴) مذ۔ (۵) مذ۔ (۶) مذ۔ (۷) مذ۔ (۸) مذ۔ (۹) مذ۔ (۱۰) مذ۔

پتوہ۔ (۱) بہت۔ (۲) مذ۔ (۳) مذ۔ (۴) مذ۔ (۵) مذ۔ (۶) مذ۔ (۷) مذ۔ (۸) مذ۔ (۹) مذ۔ (۱۰) مذ۔

پتوہ۔ (۱) بہت۔ (۲) مذ۔ (۳) مذ۔ (۴) مذ۔ (۵) مذ۔ (۶) مذ۔ (۷) مذ۔ (۸) مذ۔ (۹) مذ۔ (۱۰) مذ۔

پتوہ۔ (۱) بہت۔ (۲) مذ۔ (۳) مذ۔ (۴) مذ۔ (۵) مذ۔ (۶) مذ۔ (۷) مذ۔ (۸) مذ۔ (۹) مذ۔ (۱۰) مذ۔

پتوہ۔ (۱) بہت۔ (۲) مذ۔ (۳) مذ۔ (۴) مذ۔ (۵) مذ۔ (۶) مذ۔ (۷) مذ۔ (۸) مذ۔ (۹) مذ۔ (۱۰) مذ۔

پتوہ۔ (۱) بہت۔ (۲) مذ۔ (۳) مذ۔ (۴) مذ۔ (۵) مذ۔ (۶) مذ۔ (۷) مذ۔ (۸) مذ۔ (۹) مذ۔ (۱۰) مذ۔

پتوہ۔ (۱) بہت۔ (۲) مذ۔ (۳) مذ۔ (۴) مذ۔ (۵) مذ۔ (۶) مذ۔ (۷) مذ۔ (۸) مذ۔ (۹) مذ۔ (۱۰) مذ۔

پتوہ۔ (۱) بہت۔ (۲) مذ۔ (۳) مذ۔ (۴) مذ۔ (۵) مذ۔ (۶) مذ۔ (۷) مذ۔ (۸) مذ۔ (۹) مذ۔ (۱۰) مذ۔

پتوہ۔ (۱) بہت۔ (۲) مذ۔ (۳) مذ۔ (۴) مذ۔ (۵) مذ۔ (۶) مذ۔ (۷) مذ۔ (۸) مذ۔ (۹) مذ۔ (۱۰) مذ۔

پتوہ۔ (۱) بہت۔ (۲) مذ۔ (۳) مذ۔ (۴) مذ۔ (۵) مذ۔ (۶) مذ۔ (۷) مذ۔ (۸) مذ۔ (۹) مذ۔ (۱۰) مذ۔

پتوہ۔ (۱) بہت۔ (۲) مذ۔ (۳) مذ۔ (۴) مذ۔ (۵) مذ۔ (۶) مذ۔ (۷) مذ۔ (۸) مذ۔ (۹) مذ۔ (۱۰) مذ۔

پتوہ۔ (۱) بہت۔ (۲) مذ۔ (۳) مذ۔ (۴) مذ۔ (۵) مذ۔ (۶) مذ۔ (۷) مذ۔ (۸) مذ۔ (۹) مذ۔ (۱۰) مذ۔

پتوہ۔ (۱) بہت۔ (۲) مذ۔ (۳) مذ۔ (۴) مذ۔ (۵) مذ۔ (۶) مذ۔ (۷) مذ۔ (۸) مذ۔ (۹) مذ۔ (۱۰) مذ۔

پتوہ۔ (۱) بہت۔ (۲) مذ۔ (۳) مذ۔ (۴) مذ۔ (۵) مذ۔ (۶) مذ۔ (۷) مذ۔ (۸) مذ۔ (۹) مذ۔ (۱۰) مذ۔

پتوہ۔ (۱) بہت۔ (۲) مذ۔ (۳) مذ۔ (۴) مذ۔ (۵) مذ۔ (۶) مذ۔ (۷) مذ۔ (۸) مذ۔ (۹) مذ۔ (۱۰) مذ۔

پتوہ۔ (۱) بہت۔ (۲) مذ۔ (۳) مذ۔ (۴) مذ۔ (۵) مذ۔ (۶) مذ۔ (۷) مذ۔ (۸) مذ۔ (۹) مذ۔ (۱۰) مذ۔

پتوہ۔ (۱) بہت۔ (۲) مذ۔ (۳) مذ۔ (۴) مذ۔ (۵) مذ۔ (۶) مذ۔ (۷) مذ۔ (۸) مذ۔ (۹) مذ۔ (۱۰) مذ۔

پتوہ۔ (۱) بہت۔ (۲) مذ۔ (۳) مذ۔ (۴) مذ۔ (۵) مذ۔ (۶) مذ۔ (۷) مذ۔ (۸) مذ۔ (۹) مذ۔ (۱۰) مذ۔

پتوہ۔ (۱) بہت۔ (۲) مذ۔ (۳) مذ۔ (۴) مذ۔ (۵) مذ۔ (۶) مذ۔ (۷) مذ۔ (۸) مذ۔ (۹) مذ۔ (۱۰) مذ۔

پتوہ۔ (۱) بہت۔ (۲) مذ۔ (۳) مذ۔ (۴) مذ۔ (۵) مذ۔ (۶) مذ۔ (۷) مذ۔ (۸) مذ۔ (۹) مذ۔ (۱۰) مذ۔

(۴) سنگ دان۔ پرند کا ایک عضو جس میں پتھر وغیرہ ہضم ہو جاتے ہیں۔
 پٹوٹا۔
 پتھر پلا۔ (پتھر۔ ری۔ لا)۔ وہ [صفت] پتھر پلا ہوا۔ سنگ آمیز۔ پتھر کا۔
 پتھر حلی۔ (پتھر۔ ری۔ لی)۔ وہ [صفت] پتھر کی۔ پتھر ملی ہوئی چیز یا زمین۔
 پتھنا۔ (پتھر۔ نا)۔ وہ [صفت] پتھر بنا۔ گورکے اُپٹے بنانا (۲) زد و کوب کرنا۔
 پتھواری۔ (پتھر۔ واری)۔ وہ [صفت] وہ جگہ جہاں اُپٹے پاتھے جاتے ہیں۔
 پتھیر۔ (پتھر۔ ہیر)۔ وہ [صفت] ایشیں بنانے کی جگہ۔

پتھیرا۔ (پتھر۔ ہیر)۔ وہ [صفت] پتھیرے والا۔ پاتھنے والا۔ بنانے والا۔ ٹھہلنے والا۔ ایشیں یا اُپٹے وغیرہ بنانے والا۔

پتھیری۔ (پتھر۔ ہیری)۔ وہ [صفت] پیاز کی آڈھی۔
 پتھی۔ (پتھر۔ تی)۔ وہ [صفت] پتھر پتھا۔ کوپل۔ بوٹی بڑی کے پتے (۲) بڑی بھنگ۔ بوٹی (۳) ہندو۔ شرکت۔ ساہو (۴) پتھر۔ ٹھوڑا۔

پتھی دار۔ (پتھر۔ دار)۔ وہ [صفت] شریک۔ ساہو۔ حصہ دار۔ بہرہ دار۔
 پتھی۔ (پتھر۔ تی)۔ وہ [صفت] پتھر کا فساد۔ پتھر کی خرابی۔ صفرا کا بگاڑ (۲) ایک بیماری کا نام جو جوش خون سے پیدا ہوتی ہے۔

پتھی اچھلنا۔ (پتھر۔ اچھلنا)۔ وہ [صفت] پتھر کے فساد کا بدن بر ظاہر ہونا۔ صفرا کے بگاڑ کا جسم پر نمایاں ہونا۔

پتھی۔ (پتھر۔ تی)۔ وہ [صفت] شہر۔ خاندان۔ سوامی۔ مالک۔
 پتھی پرتنا۔ (پتھر۔ پرتنا)۔ وہ [صفت] پاک دامن۔ عیض۔ نیک (۲) خاندان کی خدمت گزار۔
 پتھیانا۔ (پتھر۔ یانا)۔ وہ [صفت] اعتبار کرنا۔ یقین کرنا۔ ساکھ کرنا (۲) خاطر میں لانا۔ دھیان دینا۔

پتھیل۔ (پتھر۔ پتھیل)۔ وہ [صفت] پتلا۔ کم زور۔ ہمیں (۲) ٹھہرنا۔
 پتھیل۔ (پتھر۔ ہیل)۔ وہ [صفت] پرتنا کی پتھی۔

پتھیل سوز۔ (پتھر۔ سوز)۔ وہ [صفت] شمع دان۔
 پتھلا۔ (پتھر۔ لا)۔ وہ [صفت] دھگہ۔ بڑی بچی۔
 پتھلی۔ (پتھر۔ لی)۔ وہ [صفت] دھاتی۔ دھات کی ہنڈیا۔

پ۔ ٹ

پٹ۔ (پٹ۔ ہ)۔ وہ [صفت] کوڑا۔ تختہ (۲) اونٹھا۔ اٹل۔ برگشتہ (۳) نقاب۔ اوٹ۔
 برقع (۴) کسی چیز کے گرنے کی آواز (۵) ذرا۔ تڑت (۶) عرض۔ چوڑائی۔
 پاٹ (۷) ٹکھان۔ تختہ۔

پٹ بھڑنا۔ (پٹ۔ بھڑنا)۔ وہ [صفت] کوڑا بند کرنا۔ دروازہ بند کرنا۔
 پٹ۔ (پٹ۔ ہ)۔ وہ [صفت] سترا کر گرنے کی آواز۔ تڑت (۲) بھج (۳) پٹنے کی آواز۔

پٹ پٹ بولنا۔ (پٹ۔ بولنا)۔ وہ [صفت] تڑت پڑنا پڑنا۔ بے بھجک باتیں کرنا۔
 پٹ پڑنا۔ (پٹ۔ پڑنا)۔ وہ [صفت] غلط ہونا۔ غیر موثر ہونا (۲) بے سود ہونا۔ تدبیر ناکامی۔
 پٹ پٹھوٹنا۔ (پٹ۔ پٹھوٹنا)۔ وہ [صفت] دروازہ کھولنا۔ کھینچنا۔ نقاب ہٹانا۔

پتھر سے سر (پھوڑنا) مارنا۔ (۱) مادہ (۲) بے وقت کو سمجھانا (۲) بے سود اور بے فائدہ کرنا۔

پتھر کا جگر۔ (۱) صفت (۲) سخت کلیجا (۳) بے رحم (۳) سنگ دل۔

پتھر کا جگر پانی ہونا۔ (۱) مادہ (۲) سنگدل کو ترس آنا۔

پتھر کا جواب پتھر۔ (۱) متوالہ سخت بات کا سخت جواب۔

پتھر کا دل (جگر۔ کلیجا)۔ (۱) صفت (۲) سنگ دل۔ ظالم۔ جاہل۔ سخت دل۔ (۲) مضبوط۔ بڈر۔

پتھر کلا۔ (۱) تڑپنے دار بندوبست چھتاق کے ذریعے سے چلنے والی بندوبست۔

پتھر کا کلیجا کر لینا۔ (۱) مادہ (۲) دل کو سخت کر لینا۔

پتھر کلیجے پر دھرنا۔ (۱) مادہ (۲) صبر کرنا۔

پتھر کو پانی (موسم) کر دینا یا کرنا۔ (۱) مادہ (۲) سنگ دل کو نرم کر دینا۔

پتھر کو متاثر کرنا۔

پتھر چینیج مارنا۔ (۱) مادہ (۲) ایسی بات کہنا جو سننے والے کو ناگوار کر دے۔

پتھر کی تصویر بننا۔ (۱) مادہ (۲) خاموش ہو جانا۔ سکتے میں آ جانا۔

پتھر کی چھاتی کر لینا۔ (۱) مادہ (۲) انتہائی ضبط کرنا۔ صبر کرنا۔

پتھر کی چھاتی۔ (۱) صفت (۲) سخت۔ دلی۔ سنگ دل (۲) حوصلہ مندی بہت۔

پتھر کی (۳) دل جگر کا استغلال (۴) چھاتی مضبوط ہونا۔ سینہ سخت ہونا۔

پتھر کی لیسر۔ (۱) صفت (۲) نہ ٹھنڈے والی چیز (۳) نقش کا لچر۔ (۴) مضبوط۔ مستحکم۔

پتھر کے نیچے کا پتھر ہونا۔ (۱) مادہ (۲) سخت مصیبت میں ہونا۔

پتھر لڑھکانا۔ (۱) مادہ (۲) تھیل اور بھڑے الفاظ استعمال کرنا۔

پتھر مارنا۔ (۱) مادہ (۲) تنگ کرنا (۳) سخت کلامی کرنا۔

پتھر مارے موت نہیں۔ (پٹل) ہنایت سخت جان ہے۔ بہت بے حیا ہے۔ انتہائی بے شرم ہے۔

پتھر میں چونک نہیں لگتی۔ (پٹل) (۱) کبوس کو رحم نہیں آتا۔ نجیل پیسہ

خرچ نہیں کرنا (۲) بڑوں پر نصیحت کا اثر نہیں ہوتا۔

پتھر چوڑنا۔ (۱) مادہ (۲) ظالم سے رحم کی امید کرنا۔ کبوس سے سخاوت چاہنا

بسے نیکی کا خیال رکھنا (۲) بے سود اور بے کار کام کرنا۔

پتھر نہیں کھلتے۔ (۱) مادہ (۲) سنگ دل کو رحم۔ نجیل کو سخاوت۔ جتنا کار کو دنا

پتھر کو زہی وغیرہ ہونا نامکن ہے۔

پتھر ہونا (ہو جانا)۔ (۱) مادہ (۲) مشکل ہونا۔ سخت ہونا (۲) بیماری ہونا۔

(۳) بھمب ہونا (۴) ایک جگہ بڑے رہنا۔ بے حس و حرکت ہونا (۵) بہرا ہونا

(۶) اندھا ہونا (۷) بے کار ہونا (۸) بے رحم ہونا (۹) بت ہو جانا۔

خاموش ہو جانا۔

پتھر اچھانا۔ پتھرانا۔ (پتھر۔ اچھانا)۔ (پتھر۔ اچھانا)۔ (۱) مادہ (۲) پتھر ہو جانا۔

پتھر اچھانا۔ (پتھر۔ اچھانا)۔ (۱) مادہ (۲) پتھر ہو جانا۔

پتھر اچھانا۔ (پتھر۔ اچھانا)۔ (۱) مادہ (۲) پتھر ہو جانا۔

پتھر اچھانا۔ (پتھر۔ اچھانا)۔ (۱) مادہ (۲) پتھر ہو جانا۔

پتھر اچھانا۔ (پتھر۔ اچھانا)۔ (۱) مادہ (۲) پتھر ہو جانا۔

پتھر اچھانا۔ (پتھر۔ اچھانا)۔ (۱) مادہ (۲) پتھر ہو جانا۔

پتھر اچھانا۔ (پتھر۔ اچھانا)۔ (۱) مادہ (۲) پتھر ہو جانا۔

پتھر اچھانا۔ (پتھر۔ اچھانا)۔ (۱) مادہ (۲) پتھر ہو جانا۔

پتھر اچھانا۔ (پتھر۔ اچھانا)۔ (۱) مادہ (۲) پتھر ہو جانا۔

پرودہ ہٹانا۔

پٹ (دس۔ ا۔ مٹ) (۱) کسی چیز کا سلکانا یا تنگ ہونا (۲) کسی چیز کو تکرنا یا دودھرا کرنا (۳) تہ۔ گڑھا (۴) کولائی دکر (۵) چادر اوڑھنا (۶) غلات (۷) لنگوٹا۔ انگوچھا (۸) گھوڑے کا سٹم (۹) دونا (۱۰) گھیلانے یا گھیلانے والی چیز۔ ملین۔ محفل۔

پٹ دیوی (رائی)۔ (۱۰۔ مٹ) راہبر کی بڑی رانی۔

پٹ (۱۰۔ مٹ) شاہ۔ بو۔ آمیزش۔ چاشنی۔ نمیر۔

پٹا۔ (پ۔ ٹا) (۱۰۔ مٹ) بھری گد کے کا کھیل۔ گڑھی کا تماشا۔ پرگری کا فن۔

پٹا باز۔ پٹے باز۔ (۱۰۔ مٹ) پٹے باز۔ پٹے کا کھلاڑی۔ لکڑی کھیلنے والا۔ (۲) کھلونے کا نٹ جو بلانے سے پٹا کھیلنا سے (۳) ایک آفتابازی پٹے کے ہاتھ (دکھانا) نکلنا۔ (۱۰۔ مٹ) (۱) لاکھوں کو اس طرح حرکت دینا جیسے پٹے میں دیتے ہیں (۲) (مجازاً) بھولی دھمکی دینا۔ نمائشی دھاک بھگانا۔

پٹا۔ (پٹ۔ ٹا) (۱۰۔ مٹ) (۱) گھو بند طوق۔ جو پائے کو گلے میں پہنانے کا چڑے

دغیزہ کا قلابہ (۲) اجارہ نامہ۔ مالک زمین کی طرف سے زمین کو کام میں لانے کا اجازت نامہ (۳) سڑک کے لیے بال۔ پٹے (۴) تختہ۔ پٹڑا۔ پٹڑی۔ بیٹھنے کا آلہ (۵) ادگی۔ چکل۔ بانات۔ محفل وغیرہ کی جوتی کے پٹے جن پر کام بنا ہو (۶) دو پٹ۔ اوڑھنا۔ ایک مرض کا (۷) پٹکا۔ پھینسا۔ لنگی۔ کمر میں باندھنے کا پٹرا۔ چپراس پیٹی (۸) دستور۔ نیک۔ انعام۔ رواج۔ حق الخدمت جو دھن کے کینوں اور غلاموں کو بیٹھے والے کی طرف سے رخصت کے وقت دیا جاتا ہے۔ (۹) کرایہ یا محصول وصول کرنے کا دستور العمل۔

پٹا آٹا دانا۔ (۱۱) چپراس لے لینا۔ پٹی آٹا لینا۔ برخاست کرنا۔ موقوف کرنا (۱۲) گوبند کھول لینا (۱۳) جائید کو آزاد کر دینا (۱۴) نکال دینا۔ ملکیت سے خارج کر دینا (۱۵) ملازمت سے علیحدہ ہونا۔ آزاد ہونا۔

پٹا پھیر۔ (۱۰۔ مٹ) دھکا دھن کا پٹرا بدلنا۔ شادی کی ایک رسم۔

پٹا پھیرنا۔ (۱۰۔ مٹ) ہندوؤں کی ایک رسم جو پھیوں کے وقت ہوتی ہے۔

پٹا ٹڑانا۔ (۱۰۔ مٹ) (۱) بے زار ہونا۔ تنگ ہونا۔ عاجز آنا (۲) آوارہ ہونا۔

پٹا کھانے کا ارادہ کنا۔ آزادی چاہنا (۳) زنجیر یا رستہ توڑنا۔

پٹا کھو لینا۔ (۱۰۔ مٹ) قول و قرار کر لینا۔ معاہدہ کر لینا۔

پٹا پٹ۔ (پ۔ ٹا) (پٹ) (۱۰۔ مٹ) (۱) بوند یا پھولوں وغیرہ کے گرنے کی آواز (۲) سڑا سڑا۔ لگاتار۔ پٹے کی آواز (۳) بکثرت۔ بافراط۔ کثرت کے ساتھ پھول کنگرنا (۴) پہلے دوپے۔ متواتر۔

پٹا پٹ بولنا۔ (۱۰۔ مٹ) متواتر یا لگاتار بولنا۔

پٹا پٹی۔ (پ۔ ٹا) (پ۔ ٹی) (۱۰۔ مٹ) ایک دھاری دار کپڑا۔

پٹا پٹی کا پردہ۔ وہ پردہ جس میں قسم قسم کے پھول بٹے بنے ہوں۔ چوب پٹا پٹی کی کوٹ۔ (۱۰۔ مٹ) رنگارنگ پھول جتی سے کاڑھا ہوا کتا رہ۔ رنگ برنگی۔ پھول بیل سے تیار کیا ہوا حاشیہ۔

پٹا پٹی۔ (پ۔ ٹا) (پ۔ ٹی) (۱۰۔ مٹ) ایک پھل۔ رس بھری۔

پٹا پٹنا۔ (۱۰۔ مٹ) (پ۔ ٹا) پٹنا پٹنا کثرت سے ہونا۔ بہت ہونا۔

پٹا دینا (پٹانا)۔ (۱۰۔ مٹ) (۱) ہمت ڈلوانا (۲) پریشش کرنا (۳) فرش ہونا (۴) گڑھے کو بڑھا دینا (۵) سودا کرنا۔

پٹاخ۔ (پ۔ ٹاخ) (۱۰۔ مٹ) پٹاخے۔ بندوق یا پتھر کی آواز۔

پٹاخ سے بولنا۔ (۱۰۔ مٹ) (۱) ہمت اور تڑپ بولنا۔ فنا۔ جواب دینا۔ زور سے بولنا۔

پٹاخا۔ (پ۔ ٹا) (۱۰۔ مٹ) (۱) پٹاخا (آتش بازی کی ایک قسم) (۲) بندوق کی ٹولی (۳) شوخ۔ چہل۔ چالاک (۴) تڑاق پڑاق بولنے والا۔ خوش آواز۔

(۵) نمکین۔ خوب صورت۔ معشوق۔

پٹارا۔ (پ۔ ٹا) (۱۰۔ مٹ) (۱) مید، لکڑی یا بانس کا بنا ہوا بس۔

پٹارا ٹوڑنا۔ (۱۰۔ مٹ) چوری کرنا۔

پٹاری۔ (پ۔ ٹا) (۱۰۔ مٹ) (۱) مید یا بانس کی بنی ہوئی صندوقچی (۲) سیدہ رکھنے کی ٹوکری (۳) ایک کپڑا جو چاولوں میں پیدا ہوتا ہے۔

پٹاری کا خرچ۔ (۱۰۔ مٹ) (۱) پانڈان کا خرچ۔ پان پھالیرہ کا صرف (۲) حرام کاری کی اُمرت۔

پٹاری میں بند رکھنے کے قابل۔ (۱۰۔ مٹ) (۱) عزیز (عجب وغریب۔ نادار۔ پٹاش۔ (Potash) (پ۔ ٹاش) (۱) لگ۔ (۱۰۔ مٹ) ایک آتش گیر مادہ۔ لکھا۔ سہی۔ مٹی۔

پٹاک پٹاق۔ (پ۔ ٹاک) (پ۔ ٹاق) (۱۰۔ مٹ) پٹ۔ بھید۔

پٹا کرنے کی آواز۔

پٹا کا۔ (پ۔ ٹا) (۱۰۔ مٹ) (۱) پٹاخا۔ چہل۔ شوخ (۲) خوبصورت۔

پٹانا۔ (پ۔ ٹا) (۱۰۔ مٹ) (۱) اصل (۲) اصل کرنا (۳) پٹا کرنا (۴) پھٹ ڈلوانا (۵) سودا کرنا۔ لین دین کرنا۔

پٹاؤ۔ (پ۔ ٹا) (۱۰۔ مٹ) (۱) پریشش۔ پھٹ۔ گڑھی۔ تختہ (۲) آب پاشی۔

پٹ بندھک۔ (پ۔ ٹن) (پ۔ ٹن) (۱۰۔ مٹ) کفالت و احسانت۔ جس میں سے سودا اور اصل دونوں مقررہ میعاد میں ادا کیے جاتے ہیں۔

پٹ بھرا۔ (پ۔ ٹ) (۱۰۔ مٹ) دیکھیے پٹ بھرا۔ آسودہ۔ ملین۔

پٹ پٹنا۔ (پ۔ ٹ) (پ۔ ٹا) (۱۰۔ مٹ) (۱) حسرت و افسوس کرنا یا پھٹنا۔ رنج کرنا۔

پٹ پھینا۔ (پ۔ ٹ) (پ۔ ٹا) (۱۰۔ مٹ) (۱) آخری اولاد۔

پٹا کرنا۔ (پ۔ ٹ) (۱) (۱) پٹا کرنا۔ بڑا بھلا کرنا (۲) پٹینا۔ دھکانا۔ پٹینا۔ (پ۔ ٹ) (۱) (۱) پٹا کرنا۔ دے مارنا یا پھٹنا (۲) سوجن کم ہونا۔

پٹینا۔ (پ۔ ٹ) (۱) (۱) (۱) پٹینا۔ زمین پر دے مارنا۔ کرنا۔

پٹینیاں دینا۔ (۱۰۔ مٹ) (۱) بار بار زمین پر دے مارنا۔

پٹینیاں کھانا۔ (۱۰۔ مٹ) (۱) پٹینا کھانا۔ لٹینیاں لینا۔ لگ لگ پٹنا۔ ٹپنا۔ ٹپنا۔

پٹ پٹ۔ (پ۔ ٹ) (پ۔ ٹ) (۱۰۔ مٹ) (۱) تڑاق پڑاق۔ بے روک ٹوک۔

(۲) اچھ ملاک۔ اچھیں کھول کر۔

پٹ پٹ بائیں کرنا۔ (۱۰۔ مٹ) (۱) بہت بائیں کرنا۔ تڑاق پڑاق بائیں کرنا۔

پٹ پٹا۔ (پ۔ ٹ) (۱۰۔ مٹ) (۱) (۱) پٹ پٹا۔ (۲) دھو بیوں کے کپڑے دھونے کا تختہ۔ لکڑی یا پتھر کی بیل (۳) پٹیل لکڑی کا ایک لمبا تختہ جو زمین ہموار کرنے کے لیے کھیت میں پھیرنے میں (پن) سہاگہ۔

پٹ پٹا پھیرنا۔ (۱۰۔ مٹ) (۱) (۱) صفا یا گردینا (۲) سہاگہ پھیرنا۔

پٹ پٹا کر دینا۔ (۱۰۔ مٹ) (۱) (۱) تباہ کر دینا (۲) ہموار کر دینا (۳) کمزور کر دینا۔

پٹ رانی - (پٹ - رانی) (۱) - امٹ (۱) پہل مکہ - ہمارانی - بڑی رانی - وہ رانی جس کی اولاد گدی کی حقدار ہو۔
پٹرول - (Petrol) (پٹ - رول) (۱) - مذ [وہ معدن تیل جس سے موٹر چلتی ہے۔] (۱) - اجن کاتیل۔

پٹری - پٹری - (پٹ - ری) (پٹ - ٹری) (۱) - امٹ (۱) - تنخی - جھوٹا تختہ - لوح - (۲) - نہر کا کنارہ - سڑک کا کنارہ - حاشیہ - سینڈ - ڈول (۳) - باغ کی چھوٹی روش (۴) - دان (۵) - کھیریل کا کھیرا جس پر نیلیاں جمائی جاتی ہیں۔

پٹری جمانا - (۱) - مادہ (۱) - آستی پالنی لگانا (۲) - گھوڑے پر دان بھا کر بیٹھنا۔
پٹس - (پٹ - ش) (۱) - امٹ - مص - پٹیا - رونا - ماتم - ڈکڑا رونا - زد و کوب۔

پٹ سن - (پٹ - سن) (۱) - مذ [ایک پودا جس میں سے سن نکالتے ہیں۔]
پٹسکا - (پٹ - کا) (۱) - مذ [(۱) - پٹی - مگر بند - کونج - کمرے سے باندھنے کا دوپٹہ یا رومال (۲) - سئی کی دیوار میں ہونے کی پٹی یا پتھر کی پتائی میں اینٹوں کی پٹی۔]

پٹسکا باندھنا - (۱) - مادہ (۱) - گرنا (۲) - کسی کام کے لیے مستعد ہونا۔
پٹسکا پکڑنا - (۱) - مادہ (۱) - دامن پکڑنا - روکنا - مڑنا - ہونا - تعرض کرنا۔

پٹسکار - (پٹ - کار) (۱) - امٹ [جاگ یا رستی جو گھوڑے کو چلانے اور پرندوں کو کھیت سے اڑانے کے کام آتی ہے۔]

پٹسکن - (پٹ - کن) (۱) - امٹ (۱) - بے چینی - بے گلی (۲) - دھکا (۳) - گزنا (۴) - سوجن کا کم ہونا۔

پٹسکنا - (پٹ - سکنا) (۱) - امٹ (۱) - پٹسنا - دسے مارنا - گزانا۔
پٹسکنی - (پٹ - سکنی) (۱) - امٹ (۱) - پٹسکی - زمین پر گرنے کا عمل۔

پٹسکی - (پٹ - کی) (۱) - امٹ (۱) - مرگ ناگہانی (۲) - جین یا آٹا جو شور با گاڑھا کرنے کے لیے کڑھا ساگ یا سالن میں ڈالتے ہیں (۳) - آفت - مصیبت - (۴) - غصت۔

پٹسکی پڑنا - (۱) - مادہ (۱) - خدا کا غضب نازل ہونا - آفت ہونا - صدر پٹسنا۔
پٹسکی پڑے - (۱) - بددعا غارت ہو - غضب نازل ہو۔

پٹسکی ڈالنا - اندھا کر دینا - آنکھیں بند کر دینا۔
پٹس - (پٹ - سن) (۱) - مذ [(۱) - بھت - چھتر (۲) - ڈھکنا - دوپٹہ - نقاب (۳) - آنکھ کی جھلی (۴) - تعداد - مقدار (۵) - گردہ - بھیڑ (۶) - ٹوکری (۷) - ختم قدم۔]

(۸) - کتاب - باب (۹) - منتر - اشلوک (۱۰) - لٹھے پر بندل کا ٹیکہ۔
پٹسلا - (پٹ - لا) (۱) - مذ [پٹسلاہ جس میں چیزیں باندھتے ہیں۔] پوٹلا۔

پٹسلی - (پٹ - لی) (۱) - امٹ [چھوٹا پٹلا - پوٹی۔]
پٹسٹم - (پٹ - ٹم) (۱) - امٹ [بند - مندا ہوا۔]

پٹسٹم ہونا - (۱) - مادہ (۱) - اندھا ہونا - پوٹسٹ ہونا۔
پٹسٹی لگانا - (پٹ - سی - لی - گانا) (۱) - امٹ [مسکنے کے محلے کو لونا۔]

پٹسن - (پٹ - سن) (۱) - امٹ (۱) - مذ [کھٹا - دریا کو جو ہرنے کی جگہ - پٹن (۲) - آبادی - بستی۔]

پٹسن - (پٹ - سن) (۱) - امٹ [پٹسن - ماتم - کھرام۔]
پٹسنا - (پٹ - سنا) (۱) - امٹ [جاننا (۱) - وصول ہونا - حاصل ہونا (۲) - ہاتھ لگانا - سودا ہونا (۳) - پریش ہونا - بھا ما مانا - کڑی سختی سے درست ہونا (۴) - آب پاشی ہونا (۵) - بھرننا - لبالب ہونا - بکثرت ہونا۔]

پٹسنا - (پٹ - سنا) (۱) - امٹ [مار کھانا (۲) - ماتم - کھرام (۳) - رنج - غم (۴) - مصیبت۔]
پٹسنی - (پٹ - سنی) (۱) - امٹ [مذ [طاح - ماتمی کھوٹا۔]
پٹسو - (پٹ - سو) (۱) - امٹ [ایک قسم کا مٹی کی کپڑا - لٹھے سے کاٹا اور بٹسٹا ہوا۔]

پٹسو - (پٹ - سو) (۱) - امٹ [صفت - (۱) - مذ [پٹنے والا - مار کھانے والا - دبیل (۲) - مار جانے والا - بھاگ جانے والا۔]
پٹسوا - (پٹ - وا) (۱) - امٹ [مذ [بٹسے اور زبرد و غیرہ میں دوسرے ڈالنے والا۔]

پٹسوا - (پٹ - وا) (۱) - امٹ [مذ [بٹسے اور زبرد و غیرہ میں دوسرے ڈالنے والا۔]
پٹسوا - (پٹ - وا) (۱) - امٹ [مذ [بٹسے اور زبرد و غیرہ میں دوسرے ڈالنے والا۔]

پٹسوا - (پٹ - وا) (۱) - امٹ [مذ [بٹسے اور زبرد و غیرہ میں دوسرے ڈالنے والا۔]
پٹسوا - (پٹ - وا) (۱) - امٹ [مذ [بٹسے اور زبرد و غیرہ میں دوسرے ڈالنے والا۔]

پٹسوا - (پٹ - وا) (۱) - امٹ [مذ [بٹسے اور زبرد و غیرہ میں دوسرے ڈالنے والا۔]
پٹسوا - (پٹ - وا) (۱) - امٹ [مذ [بٹسے اور زبرد و غیرہ میں دوسرے ڈالنے والا۔]

پٹسوا - (پٹ - وا) (۱) - امٹ [مذ [بٹسے اور زبرد و غیرہ میں دوسرے ڈالنے والا۔]
پٹسوا - (پٹ - وا) (۱) - امٹ [مذ [بٹسے اور زبرد و غیرہ میں دوسرے ڈالنے والا۔]

پٹسوا - (پٹ - وا) (۱) - امٹ [مذ [بٹسے اور زبرد و غیرہ میں دوسرے ڈالنے والا۔]
پٹسوا - (پٹ - وا) (۱) - امٹ [مذ [بٹسے اور زبرد و غیرہ میں دوسرے ڈالنے والا۔]

پٹسوا - (پٹ - وا) (۱) - امٹ [مذ [بٹسے اور زبرد و غیرہ میں دوسرے ڈالنے والا۔]
پٹسوا - (پٹ - وا) (۱) - امٹ [مذ [بٹسے اور زبرد و غیرہ میں دوسرے ڈالنے والا۔]

پٹسوا - (پٹ - وا) (۱) - امٹ [مذ [بٹسے اور زبرد و غیرہ میں دوسرے ڈالنے والا۔]
پٹسوا - (پٹ - وا) (۱) - امٹ [مذ [بٹسے اور زبرد و غیرہ میں دوسرے ڈالنے والا۔]

پٹسوا - (پٹ - وا) (۱) - امٹ [مذ [بٹسے اور زبرد و غیرہ میں دوسرے ڈالنے والا۔]
پٹسوا - (پٹ - وا) (۱) - امٹ [مذ [بٹسے اور زبرد و غیرہ میں دوسرے ڈالنے والا۔]

پٹسوا - (پٹ - وا) (۱) - امٹ [مذ [بٹسے اور زبرد و غیرہ میں دوسرے ڈالنے والا۔]
پٹسوا - (پٹ - وا) (۱) - امٹ [مذ [بٹسے اور زبرد و غیرہ میں دوسرے ڈالنے والا۔]

پٹسوا - (پٹ - وا) (۱) - امٹ [مذ [بٹسے اور زبرد و غیرہ میں دوسرے ڈالنے والا۔]
پٹسوا - (پٹ - وا) (۱) - امٹ [مذ [بٹسے اور زبرد و غیرہ میں دوسرے ڈالنے والا۔]

پٹسوا - (پٹ - وا) (۱) - امٹ [مذ [بٹسے اور زبرد و غیرہ میں دوسرے ڈالنے والا۔]
پٹسوا - (پٹ - وا) (۱) - امٹ [مذ [بٹسے اور زبرد و غیرہ میں دوسرے ڈالنے والا۔]

پٹسوا - (پٹ - وا) (۱) - امٹ [مذ [بٹسے اور زبرد و غیرہ میں دوسرے ڈالنے والا۔]
پٹسوا - (پٹ - وا) (۱) - امٹ [مذ [بٹسے اور زبرد و غیرہ میں دوسرے ڈالنے والا۔]

پٹسوا - (پٹ - وا) (۱) - امٹ [مذ [بٹسے اور زبرد و غیرہ میں دوسرے ڈالنے والا۔]
پٹسوا - (پٹ - وا) (۱) - امٹ [مذ [بٹسے اور زبرد و غیرہ میں دوسرے ڈالنے والا۔]

پٹسوا - (پٹ - وا) (۱) - امٹ [مذ [بٹسے اور زبرد و غیرہ میں دوسرے ڈالنے والا۔]
پٹسوا - (پٹ - وا) (۱) - امٹ [مذ [بٹسے اور زبرد و غیرہ میں دوسرے ڈالنے والا۔]

کوشش کرنا۔ اپنے منہ سے نکل ہوئی بات پر اُڑے رہنا۔
پچکلیمان - (۵۔ صفت) وہ جانور جس کے چاروں پیر اور ماتھا سفید ہو خصوصاً گھوڑا (۲) دوغلا۔
پچ گنا - (۵۔ صفت) پانچ سے ضرب دیا ہوا۔ پانچ جتنے زیادہ۔
پچکڑا - (۱۔ مذ) پانچ ٹڑیوں کا۔ بار۔
پچکڑی - پچکڑا کی تائینٹ۔ پانچ ٹڑیوں والی۔
پچکڑوٹا - (۵۔ صفت) (۱) پانچ ٹکوں سے بنا ہوا چورن (۲) پانچ ڈانٹوں کا۔ پانچ مزدوں کا۔

پچ محلہ - پچ منزلہ۔ (۵۔ صفت) پانچ منزلوں کا مکان۔
پچ میل - (۵۔ صفت) (۱) پانچ تیزوں کا مرکب (۲) ہر قسم کا۔ سب طرح کی۔
پچ ہتھ پچھتا - (۱) پانچ ہاتھ کے تھکا (۲) جسے تھکا (۳) پرورا آدی۔

پچا بھٹنا - (۱۔ محاورہ) ہنرمند کرنا۔ غضب کرنا۔
پچا رار - (پ۔ چا۔ را۔ ۵۔ مذ) (۱) بٹنا پھیرنے کی کوڑھی۔ برش (۲) ہلکارنگ سینڈی وغیرہ کی ہتھی تہ۔

پچا رار پھیرنا - (۱۔ محاورہ) (۱) بٹنا پھیرنا۔ رنگائی کرنا۔ سفیدی کرنا۔ پوتنا (۲) صفائی کرنا۔ مٹانا (۳) بہکانا۔ ترضیب دینا۔
پچا رار دینا - (۱۔ محاورہ) (۱) دیکھنے بھارا پھیرنا (۲) روکنے تازہ مٹانا (۳) خوشامد کرنا۔
پچا رے میں آنا - (۱۔ محاورہ) ترضیب میں آنا۔

پچاس - (پ۔ چاس) (۵۔ صفت) پانچ دھائی۔ پچاہ۔ ۵۰۔
پچاسا - (پ۔ چاسا) (۱۔ مذ) (۱) پچاس روپیہ کا وزن (۲) پچاس روپیہ۔ وزن توڑنے کا کاشا (۳) پچاس کی تعداد۔ پچاس کی رقم۔

پچاسواں - (پ۔ چاس۔ واں) (۱۔ صفت) اگر ایک کو پچاس حصوں میں تقسیم کیا جائے تو ان حصوں میں سے ایک۔ بلیہ

پچاسوں - (پ۔ چا۔ سوں) (۵۔ صفت) (۱) پچاس کے پچاس (۲) بہت۔ بکثرت۔ زیادہ۔

پچاسی - (پ۔ چا۔ سی) (۵۔ صفت) پانچ اوپر آستی۔ آستی اور پانچ (۸۵)۔
پچا نا - (پ۔ چا۔ نا) (۵۔ صفت) (۱) ہنرمند کرنا۔ برداشت کرنا (۲) مال مار کر کھا جانا۔ چٹ کرنا۔

پچا نوے - (پ۔ چا۔ نوے) (۵۔ صفت) (۱) نوے اور پانچ۔ نوڑو پچ۔ ۹۵۔
پچاؤ - (پ۔ چا۔ او) (۵۔ مذ) (۱) اٹھنے کی طاقت (۲) برداشت۔ سہارا۔

پچ پچ - (۵۔ صفت) (۱) کچھ یا دلدل میں چلنے کی آواز۔
پچ پچ کرنا - (۱۔ محاورہ) (۱) پچ پچ کرنا۔ (۲) پچ پچ کرنا۔ (۳) کچھ میں چلنے سے آواز نکلنا۔

پچ پچ - (۵۔ صفت) پیار کی آواز جس سے جانور کو بھلاتے یا اُس کے غصے کو ختم کرتے ہیں۔
پچ پچا - (پ۔ چا۔ ۵۔ صفت) (۱) کچھ کھانا جس کا پانی خشک نہ ہو۔ نرم۔ ڈھیلا۔

پچ پچانا - (پ۔ چا۔ نا) (۵۔ صفت) (۱) رطوبت سے بھرا ہونا۔
پچ پچا ہٹ - (پ۔ چا۔ ہٹ) (۵۔ صفت) (۱) پچ پچانے کی کیفیت۔

پچیل - (پ۔ ٹی۔ لی) (۵۔ صفت) (۱) ایک چھوٹی کشتی۔
پچیل - (پ۔ ٹی۔ لی) (۵۔ صفت) (۱) گاؤں کی نبرداری۔
پچیل - (پ۔ ٹی۔ لی) (۵۔ صفت) (۱) پٹنے والی۔ مار کھانے والی۔
پچیل - (پ۔ ٹی۔ لی) (۵۔ صفت) (۱) تختہ جسے کپڑا چھانے کے لیے بھپایا جاتا ہے۔

پچیل - (پ۔ ٹی۔ لی) (۵۔ صفت) (۱) حلوے کی قسم کا ایک لذیذ کھانا (۲) کڑھی کی دروازوں اور چھیدوں کو بند کرنے کا سالہ۔ شیٹوں کو کواٹروں میں چپکانے کا سالہ۔ گڈی۔

پ۔ج

پچا - (پ۔ جا) (۵۔ صفت) بھرا۔ آباد۔
پچا پیا - (پ۔ جا۔ پیا) (۵۔ صفت) (۱) پوٹنے کا سامان۔ پڑھاوے کی چیزیں (۲) بھگڑا۔ بھگڑا۔ مصیبت۔

پچا پیا پھیلا نا - (۱۔ محاورہ) بھگڑا پھیلا نا۔ بے ترتیبی سے چیزیں پھیلا نا۔
پچا راری - (پ۔ جا۔ راری) (۵۔ صفت) (۱) پوٹنے والا۔ عبادت کرنے والا (۲) مجاور (۳) مجازاً بچوں کی پوجا کرنے والا۔ پڑھے۔

پچا نا - (پ۔ چا۔ نا) (۵۔ صفت) (۱) پچیل کرنا (۲) بھڑنا۔ پورا کرنا۔
پچا وا - (پ۔ چا۔ وا) (۵۔ صفت) (۱) زیادہ۔ آدہ۔ بھڑے۔

پچا نا - (پ۔ چا۔ نا) (۵۔ صفت) (۱) پرستش کیا جانا (۲) مانا جانا۔
پچا نا - (پ۔ چا۔ نا) (۵۔ صفت) (۱) عبادت کرنا۔ بندگی کرنا۔ پرستش کرنا۔
پچا نا - (پ۔ چا۔ نا) (۵۔ صفت) (۱) نہایت پاجی۔ بہت کیلئے سخت نالائق۔
پچا نا - (پ۔ چا۔ نا) (۵۔ صفت) (۱) باہمی عورت۔ بچوڑا کی تائینٹ۔

پ۔ج

پچا - (۵۔ صفت) (۱) طرف داری۔ جانب داری۔ حمایت۔ رعایت (۲) تعصب۔ ضد (۳) کوشش (۴) پانچ کا مختلف مرکبات میں (۵) پچا کا اثر۔

پچا پر ہونا - (۱۔ محاورہ) (۱) طرف دار ہونا۔ طرف داری کرنا۔
جانب داری کرنا۔
پچا پچا - پانچ مشایخ جو ہندو دھرم میں دیتے ہیں۔
پچا پہلو - کتبہ۔ وہ شکل جس کے پانچ پہلو ہوں۔

پچا پھوللا رانی بنی میں - (پ۔ چا۔ پھوللا رانی) (۵۔ صفت) (۱) نہایت نازک جس۔ نزاکت پر بہت گھنڈی ہے۔
پچا ورہ - پانچ دروں کا مکان۔

پچا دھات - (۵۔ صفت) پانچ دھاتوں کا مرکب جس کے گھنڈے بنتے ہیں۔
پچا رنگ - (۵۔ صفت) (۱) پانچ رنگ کا۔ رنگارنگ کا۔
پچا کرنا - (۱۔ محاورہ) (۱) طرف داری کرنا۔ رعایت کرنا (۲) تعصب کرنا (۳)

پچکن (بج پن) (۱) صفت [پانچ اوپر پاس - پچھاہ پنج - ۵۵ -
 پچکتانا (بج تانا) (۱) صفت [انوس کرنا - حسرت (۲) ستر مانا -
 نادم ہونا -
 پچکتا وا (بج تا) (۱) مذ [حسرت - انوس (۲) شرم - ندامت -
 پیشانی - شرمندگی - پچکتانا -
 پچکتولیا پچتولیب (بج تول یا) (بج تول یریم) (۱) مذ [ایک
 قسم کا کپڑا -
 پچننا (پ - پنج) (نا) (۱) صفت [پچکننا - دب جاننا -
 پچنجر (بج - پنج) (۱) صفت [پچنجر - مزاحمت - ترض (۲) میخ کھونٹی
 کڑی کا چھوٹا ٹکڑا جو کڑی پیرتے وقت دراز کھلی رہنے کے لیے
 لگا جا جائے -
 پچڑا آٹانا (۱) محاورہ [کھونٹی گاڑنا (۲) خانہ لگانا (۳) دکنا پڑنا [روک
 رک کرنا (۴) کڑی کی دراز میں کڑی وغیرہ کا کڑا پھینکانا -
 پچڑا پڑنا ناہانی آفت پڑنا -
 پچڑا کھونٹنا (۱) محاورہ [تکلیف دینا - صدمہ پہنچانا (۲) مزاحمت کرنا -
 روک ٹوک کرنا -
 پچڑا مارنا (۱) محاورہ [رخصت ڈالنا (۲) بجانی مارنا کام بگاڑنا بھیل کھانا -
 پچڑک (ب - بچک) (۱) صفت [مرئی کے اڈے کا بچلا حصہ -
 پچڑکار (بج - کار) (۱) صفت [پچڑکار پیار (۲) اطمینان - دلاسا - تھیک -
 پچڑکارنا (بج - کارنا) (۱) صفت [پیار کرنا (۲) تسلی دینا - اطمینان
 کرنا - دلاسا دینا - تھیکنا - تھیک دینا -
 پچڑکاری (بج - کاری) (۱) صفت [پچڑکاری (۲) پچڑکار (۳) پیاری آواز -
 پچڑکاری دینا (۱) محاورہ [جاننا یا پتے کو پیار کرنے کے لیے بلانا -
 پچڑکاری (بج - کاری) (۱) صفت [دم کلام - دم گیر (۲) رنگ پاشی کا آلہ
 (۳) فرازہ (۴) منہ سے پان کی پیک دھار باندھ کر پھینکنا (۵) ٹھنڈہ -
 پچڑکانا (بج - کاننا) (۱) صفت [دبانا - پھینکانا - دھکانا -
 پچڑکانا (بج - جاننا) (۱) صفت [دھات کے برتن میں گرھا
 پڑ جانا یا ڈب جانا (۲) مغلوب ہو جانا - دب جانا -
 پچڑکننا (بج - کننا) (۱) صفت [دبنا - پھینکانا - سکڑانا - دھنسا - گرلانا -
 پچڑکلانا (بج - کلانا) (۱) صفت [بھسکا دینا -
 پچڑکننا (بج - کننا) (۱) صفت [معصم ہونا - گھنا (۲) ضبط ہونا - برداشت ہونا (۳)
 جانب داری کرنا - پچ کرنا (۴) بہت کوشش کرنا (۵) واپس نہ ہونا -
 پوری کا پتر نہ لگانا -
 پچڑنا (بج - نانا) (۱) صفت [دونا - پچل جانا -
 پچڑترا (بج - ترا) (۱) مذ [پانچ فی صدی رقم جو عموماً مالیرہ میں زیادہ
 لی جاتی ہے -
 پچڑنی (بج - چڑنی) (۱) صفت [بربدہ -
 پچڑاڑ (بج - چاڑاڑ) (۱) مذ [پچنی پیٹھ کے بل زمین پر گرنا (۲) بے ہوش
 ہو کر گرنا -
 پچڑاڑیں کھانا (۱) محاورہ [ٹوٹنا - تڑپنا - چٹنیال کھانا (۲) صدے اٹھانا -

(۳) صدے سے گر پڑنا -
 پچھاڑنا (بج - چھاڑنا) (۱) صفت [دینا - پھینکانا - گرانا - دے مارنا (۲)
 ہرانا - عاجز کرنا (۳) بے حال کر دینا - نھکانا (۴) نقل کرنا (۵) فح پانا -
 پھینکانا - بڑھ جانا (۶) گرنا دینا - ڈالنا - ذر کرنا -
 پچھاڑی (بج - چھاڑی) (۱) صفت [پچھاڑی (۲) پچھاڑی (۳) پچھاڑی (۴) پچھاڑی (۵) پچھاڑی (۶)
 عیزر ماضی (۳) پاؤں میں باندھنے کی رسی یا زنجیر - پچھاڑی - پچھاڑی -
 پچھان (بج - چھان) (۱) صفت [پچھان - مغرب -
 پچھاوا پچھایا (بج - چھاوا) (۱) صفت [پچھاوا (۲) پچھاوا (۳) پچھاوا (۴) پچھاوا (۵) پچھاوا (۶)
 پچھٹانا (بج - چھٹانا) (۱) صفت [پچھٹانا (۲) پچھٹانا (۳) پچھٹانا (۴) پچھٹانا (۵) پچھٹانا (۶)
 پچھٹاوا (بج - چھٹاوا) (۱) صفت [پچھٹاوا (۲) پچھٹاوا (۳) پچھٹاوا (۴) پچھٹاوا (۵) پچھٹاوا (۶)
 پچھتر (بج - چھتر) (۱) صفت [پچھتر (۲) پچھتر (۳) پچھتر (۴) پچھتر (۵) پچھتر (۶)
 پچھڑنا (بج - چھڑنا) (۱) صفت [پچھڑنا (۲) پچھڑنا (۳) پچھڑنا (۴) پچھڑنا (۵) پچھڑنا (۶)
 (۳) شکست کھانا - بار جانا (۴) پچھے رہ جانا (۵) برابری نہ
 کر سکانا -
 پچھڑنا (بج - چھڑنا) (۱) صفت [پچھڑنا (۲) پچھڑنا (۳) پچھڑنا (۴) پچھڑنا (۵) پچھڑنا (۶)
 پچھلا (بج - چھلا) (۱) صفت [پچھلا (۲) پچھلا (۳) پچھلا (۴) پچھلا (۵) پچھلا (۶)
 پچھلا پیر (بج - چھلا پیر) (۱) صفت [پچھلا پیر (۲) پچھلا پیر (۳) پچھلا پیر (۴) پچھلا پیر (۵) پچھلا پیر (۶)
 پچھلا کھانا (بج - چھلا کھانا) (۱) صفت [پچھلا کھانا (۲) پچھلا کھانا (۳) پچھلا کھانا (۴) پچھلا کھانا (۵) پچھلا کھانا (۶)
 کھاتے ہیں - سحری -
 پچھلے پاؤں پھرنا (بج - چھلے پاؤں پھرنا) (۱) صفت [پچھلے پاؤں پھرنا (۲) پچھلے پاؤں پھرنا (۳) پچھلے پاؤں پھرنا (۴) پچھلے پاؤں پھرنا (۵) پچھلے پاؤں پھرنا (۶)
 (۲) تپنا ہونا - شکست کھانا - بارنا -
 پچھلے پہر - پچھلے پہرے (بج - چھلے پہرے) (۱) صفت [پچھلے پہرے (۲) پچھلے پہرے (۳) پچھلے پہرے (۴) پچھلے پہرے (۵) پچھلے پہرے (۶)
 پچھلا (بج - چھلا) (۱) صفت [پچھلا (۲) پچھلا (۳) پچھلا (۴) پچھلا (۵) پچھلا (۶)
 پچھلپائی (بج - چھلپائی) (۱) صفت [پچھلپائی (۲) پچھلپائی (۳) پچھلپائی (۴) پچھلپائی (۵) پچھلپائی (۶)
 بجائے پیچھے کوبوں (۲) ڈانٹ پھیل (۳) جاوگرنی -
 پچھ لگو (بج - چھ لگو) (۱) صفت [پچھ لگو (۲) پچھ لگو (۳) پچھ لگو (۴) پچھ لگو (۵) پچھ لگو (۶)
 صفت [پچھل اولاد -
 پچھلن (بج - چھلن) (۱) صفت [پچھلن (۲) پچھلن (۳) پچھلن (۴) پچھلن (۵) پچھلن (۶)
 پچھلی (بج - چھلی) (۱) صفت [پچھلی (۲) پچھلی (۳) پچھلی (۴) پچھلی (۵) پچھلی (۶)
 پچھلی لکھا (بج - چھلی لکھا) (۱) صفت [پچھلی لکھا (۲) پچھلی لکھا (۳) پچھلی لکھا (۴) پچھلی لکھا (۵) پچھلی لکھا (۶)
 ہونی روٹی -
 پچھلی رات (بج - چھلی رات) (۱) صفت [پچھلی رات (۲) پچھلی رات (۳) پچھلی رات (۴) پچھلی رات (۵) پچھلی رات (۶)
 پچھلی روٹی کھائے پچھلی مت آئے (بج - چھلی روٹی کھائے پچھلی مت آئے) (۱) صفت [پچھلی روٹی کھائے پچھلی مت آئے (۲) پچھلی روٹی کھائے پچھلی مت آئے (۳) پچھلی روٹی کھائے پچھلی مت آئے (۴) پچھلی روٹی کھائے پچھلی مت آئے (۵) پچھلی روٹی کھائے پچھلی مت آئے (۶)
 روٹی کھانے والا بے وقوف ہوتا ہے -
 پچھلی مت (بج - چھلی مت) (۱) صفت [پچھلی مت (۲) پچھلی مت (۳) پچھلی مت (۴) پچھلی مت (۵) پچھلی مت (۶)
 پچھم (بج - چھم) (۱) صفت [پچھم (۲) پچھم (۳) پچھم (۴) پچھم (۵) پچھم (۶)
 پچھم جاؤ کہ دھن - وہی کرم کے پچھن - دخل روزی کی تلاش میں جو
 چاہو کرو اور جہاں چاہو جاؤ جو قسمت میں ہوگا وہی لگے گا -
 پچھمی (بج - چھمی) (۱) صفت [پچھمی (۲) پچھمی (۳) پچھمی (۴) پچھمی (۵) پچھمی (۶)
 پچھنا (بج - چھنا) (۱) صفت [پچھنا (۲) پچھنا (۳) پچھنا (۴) پچھنا (۵) پچھنا (۶)

چکنے دینا۔ (۱) پچنے لگانا۔ ضد لینا۔ خون نکلانا (۲) طنے دینا۔

چکھوا۔ (۱) پچھ۔ (۲) دل ڈھ۔ (۳) اندھا (۴) پچھم کی ہوا (۵) انگلیا کی پیٹھ۔

چکھوا چلے بھیت پیٹھے۔ (۱) مثل پچھم کی ہوا گرم ہوتی ہے لہذا کہیت جلدی ہتی ہے۔

چکھوار۔ (۱) پچھ۔ (۲) وارڈ۔ (۳) امٹ۔ (۴) بارش جو ہوا کے زور سے مکان میں آئے۔

چکھوار۔ (۱) چکھوار۔ (۲) چکھواری۔ (۳) پچھ۔ (۴) وارڈ۔ (۵) پچھ۔ (۶) وا۔ (۷) ڈی۔ (۸) رسی۔ (۹) عقب خاز۔ گھر کی پشت۔ مکان کی پیٹھ۔

چکھوانا۔ (۱) پچھ۔ (۲) وا۔ (۳) دھ۔ (۴) مہس۔ (۵) کسی دوسرے کے ذریعہ سے پوچھنا۔ دریافت کرنا۔

چکھوانی۔ (۱) پچھ۔ (۲) وا۔ (۳) ڈھ۔ (۴) امٹ۔ (۵) پچھوا ہوا۔

چکھوت۔ (۱) پچھوت۔ (۲) دھ۔ (۳) صف۔ (۴) ا۔ (۵) پچھائی۔ (۶) آخری۔ پچھلی۔ اخیر کی پیداوار (۷) بعد میں۔ پیچھے آنے والی۔

چکھورا۔ (۱) چکھوری۔ (۲) پچھ۔ (۳) وا۔ (۴) پچھو۔ (۵) رسی۔ (۶) دھ۔ (۷) کھڑا۔ (۸) جیسے کبھی کمرے یا مٹھے میں۔ کبھی سر برداں لیتے ہیں۔

چکھوڑ۔ (۱) چکھوڑن۔ (۲) پچھوڑ۔ (۳) پچھوڑن۔ (۴) دھ۔ (۵) کھڑا کرکٹ جو مڈ صاف کرنے پر نکلتا ہے۔

چکھوڑنا۔ (۱) پچھوڑنا۔ (۲) دھ۔ (۳) مہس۔ (۴) چھاب سے غڈ صاف کرنا۔

چکھوتیا۔ (۱) پچھ۔ (۲) دی۔ (۳) دھ۔ (۴) مڈ۔ (۵) دریافت کرنے والا۔ خبر لینے والا۔ مددگار۔ پچھتیا۔ پچھیاؤ۔ (۱) پچھ۔ (۲) یا۔ (۳) پچھ۔ (۴) یا۔ (۵) امٹ۔ (۶) پچھم کی ہوا۔

چکھیت۔ (۱) پچھیت۔ (۲) دھ۔ (۳) امٹ۔ (۴) مکان کے پیچھے کی دیوار۔ چکھوڑا۔

چکھیتی کہیتی۔ (۱) دھ۔ (۲) امٹ۔ (۳) فصل جو دیر سے لونی جائے اور دیر سے پکے۔

چکھتی۔ (۱) تیج۔ (۲) جی۔ (۳) دھ۔ (۴) امٹ۔ (۵) پچھ۔ (۶) دھانس (۷) جوڑ۔ (۸) بیوند۔ (۹) چھپی (۱۰) پڑا ہوا۔ (۱۱) مضبوط۔ (۱۲) پختہ۔ (۱۳) ہم آواز۔

چکھی کاری۔ (۱) صف۔ (۲) جواہر اور رنگ دار پتھروں کا کام۔ پتھروں میں پتھر ٹھکانا۔

چڑا کام۔ (۱) پتھر لگانا۔ چسپان کرنا۔ جوئے اور اینٹ کا مضبوط کام۔

چکھی کاری کرنا۔ اینٹ اور چونے کو آپس میں اچھی طرح وصل کر کے ہوا کرنا۔

نقاشی کا کام کرنا۔ مٹین کرنا۔

چکھی کرنا۔ پیوست کرنا۔ مضبوط کرنا۔ پھنسا دینا۔

چکھی۔ (۱) تیج۔ (۲) جی۔ (۳) دھ۔ (۴) امٹ۔ (۵) پچھلا ہوا۔ دبا ہوا کسی چیز کا چوٹ سے چوڑا ہو جانا۔

چکھیت۔ (۱) پچھیت۔ (۲) دھ۔ (۳) امٹ۔ (۴) پھلان۔ (۵) تیج۔ (۶) چھاننے والا۔ (۷) ہنرمند۔

(۸) تجربہ کار۔ ہوشیار۔ (۹) چالاک۔ (۱۰) دعا باز۔ (۱۱) چال باز۔ (۱۲) آٹھوں کا ٹھک۔

کیت۔ جو کس۔

چکھیتی۔ (۱) پچھ۔ (۲) تی۔ (۳) دھ۔ (۴) امٹ۔ (۵) داؤں چالاک۔ چال بازی (۶) پہلوانی۔

چکھیس۔ (۱) تیج۔ (۲) جیس۔ (۳) دھ۔ (۴) پانچ اوپر جیس۔ بست۔ (۵) تیج۔ (۶) دھ۔ (۷) پچھیسواں۔

(۸) تیج۔ (۹) جیس۔ (۱۰) دھ۔ (۱۱) امٹ۔ (۱۲) ایک کا پچھیسواں حصہ۔ (۱۳) پچھیس۔ (۱۴) جی۔ (۱۵) امٹ۔ (۱۶) جوس۔ ایک کھیل جوسات کڑیوں سے کھیلا جاتا ہے۔

چخ۔ (۱) اڑ۔ (۲) امٹ۔ (۳) روک۔ (۴) پانڈی۔ (۵) اٹکاؤ۔ (۶) جھگڑا۔ (۷) خرابی (۸) بک بک۔ (۹) غل۔ شور۔ (۱۰) نالتو۔ (۱۱) بیگار کی ملت۔

چخ پھیلانا۔ (۱) محاورہ۔ (۲) جھگڑا ڈالنا۔ شور و شر کرنا۔ فساد کرنا۔

چخ کرنا۔ (۱) جھگڑا ڈالنا۔ شور و شر کرنا (۲) خرابی ڈالنا۔ (۳) مشروط قائم کرنا۔

چخ لگانا۔ (۱) محاورہ۔ (۲) روک لگانا۔ جھگڑا لگانا (۳) تکرار بے جا کرنا (۴) مشروط لگانا۔

چخ مچانا۔ (۱) محاورہ۔ (۲) شور کرنا۔ ہم تجھ کرنا (۳) بے جودہ بکنا۔ مذاق کرنا۔

چخ نکالنا۔ (۱) محاورہ۔ (۲) خرابی ڈالنا۔ بغض ظاہر کرنا (۳) اعتراض کرنا۔

جخت نکالنا۔

چخال۔ (۱) پ۔ (۲) خال۔ (۳) اڑ۔ (۴) امٹ۔ (۵) پچھال۔ (۶) چرسہ۔ (۷) مشک۔ (۸) جوہیل یا پیسے پر لادی جاتی ہے۔

چخال پینیا۔ (۱) صف۔ (۲) بڑ پیٹ۔ زیادہ کھانے والا۔ بسیار خور۔

چکھت۔ (۱) دف۔ (۲) امٹ۔ (۳) پچھنے کا فعل۔

چکھت و پڑ۔ (۱) ٹھیک ٹھاک (۲) قول فیصل۔ (۳) قطع جخت (۴) وعدہ۔

چکھت و قرار۔ (۱) بات چیت (۲) کھانا بکھانا۔

چکھتیاں۔ (۱) تیج۔ (۲) خال۔ (۳) اڑ۔ (۴) امٹ۔ (۵) چپتیاں (۶) مٹت کی روٹی۔

چکھتگی۔ (۱) تیج۔ (۲) ٹ۔ (۳) دف۔ (۴) امٹ۔ (۵) مضبوطی۔ (۶) خامی کے خلاف۔ (۷) پھل کا پک جانا یا گل جانا (۸) طوخت کو سپننا (۹) تجربہ کاری۔

چکھتہ۔ (۱) تیج۔ (۲) دف۔ (۳) صف۔ (۴) مضبوط۔ (۵) بیدار۔ (۶) تجربہ کار۔ ہوشیار (۷) بالغ۔ (۸) عمر رسیدہ۔ (۹) مکمل۔ (۱۰) طے۔ (۱۱) قطع جخت۔ (۱۲) بریاں۔ پکا ہوا۔

چکھتہ ہوا۔ (۱) مستقل۔ (۲) جمع۔ (۳) چکھت۔

چکھتہ بات۔ (۱) دف۔ (۲) امٹ۔ (۳) ٹھیک بات۔ (۴) طے شدہ امر۔

چکھتہ رائے۔ (۱) دف۔ (۲) امٹ۔ (۳) مضبوط رائے والا۔ (۴) پختہ مغز۔ (۵) ہوشیار۔

چکھتہ کار۔ (۱) دف۔ (۲) صف۔ (۳) تجربہ کار۔ ہوشیار۔ (۴) طاقت کار۔ ہنرمند۔

چکھتہ کرنا۔ (۱) مہس۔ (۲) کرکٹ۔ (۳) مضبوط کرنا۔ پکانا۔ یا مڈا کرنا (۴) تجربے میں

لانا۔ (۵) امتحان کرنا (۶) طے کرنا۔ ٹھیک ٹھاک کرنا (۷) تجربہ کار بنانا۔ ہوشیار

کرنا (۸) پورا کرنا (۹) خامی دور کرنا۔

چکھتہ مزاج۔ (۱) صف۔ (۲) مستقل مزاج۔ مضبوط ارادے کا۔

چکھتہ مزاجی۔ (۱) امٹ۔ (۲) مستقل مزاجی۔ استقلال۔ مضبوطی۔

چکھتہ مغز۔ عقل مند۔ ہوشیار۔

چکھتو۔ (۱) تیج۔ (۲) ٹ۔ (۳) امٹ۔ (۴) پش تو زبان۔

چکھتوں۔ (۱) تیج۔ (۲) ٹ۔ (۳) امٹ۔ (۴) پش تو زبان۔

چکھتہ۔ (۱) تیج۔ (۲) نا۔ (۳) امٹ۔ (۴) بے جودہ۔ (۵) کینز۔ (۶) بے تمیز نامتقول (۷) یادہ گو (۸) ڈر لوک۔

چکھتی۔ (۱) تیج۔ (۲) ٹ۔ (۳) امٹ۔ (۴) پش کی تائینٹ۔ (۵) بے جودہ۔ (۶) غل چھاننے والی۔ کینز۔ (۷) برزیل۔

چکھتیا۔ (۱) تیج۔ (۲) نا۔ (۳) امٹ۔ (۴) جھگڑا۔ (۵) فساد۔ (۶) بے جودہ۔ (۷) کینز۔

پدوی دینا - خطاب دینا۔ رُتبہ دینا۔
پدھارنا - (پ۔ دھارنا، نا، دھ۔ مص) (۱) آنا، تشریف لانا (۲) تشریف لے جانا
 سدھارنا (۳) بیٹھنا۔ تشریف رکھنا۔
پدھان - (پ۔ دھان) (۱) (۱-۵) پد دھری۔ مقدم۔ پردھان۔ صدر۔ میر۔
پدھت - (پ۔ دھت) (۱) (۱-۵) پدھت۔ طور۔ طریقہ۔ عادت۔ رسم۔ درواج۔
پدھی - (پدھی) (۱) (۱-۵) پدھی۔ ایک چھوٹی خوش آواز پڑیا۔ پدا کا مادہ۔
پدھید - پدھیدار۔ (پ۔ دھید) (۱) (۱-۵) پدھی۔ دار۔ (۲) صفت۔ صاف۔ عام بات
 واضح۔ آشکارا۔ کھلا۔

پد - (س۔ ۱-۱) (۱) پادوں۔ پگ۔ قدم۔ پیرن (۲) فقرہ۔ مصرع۔ گیت (۳)
 کھونج۔ نشان (۴) درجہ۔ عزت (۵) (پدنی) گوز۔
پدا - (پد۔ ۱) (۱) (۱-۵) [۱] ایک چھوٹی سی پڑیا۔ چھڈکی (۲) غنیل میں غلہ
 دکھ کر جلانے کی جگہ (۳) بے حیثیت (۴) کم طاقت۔
پدے کی ضامنی - (۱) عمارت (۲) ناقابل اعتبار کوئی کی ضمانت۔
پدارتھ - (پ۔ ۱) (۱) (۱-۵) [۱] شے۔ چیز۔ بست (۲) غلہ کھانا۔
 لذیذ چیز۔
پدانا - (پ۔ ۱) (۱) (۱-۵) [۱] پادنے کا سبب کرنا (۲) تھکانا۔ ہرانا۔
 عاجز کرنا۔ بے چین کرنا۔

پ۔ د۔ پ۔ ڈ۔ ذ۔ پ۔ ر

پڈنگ (Pudding) (پ۔ ڈنگ) (۱) (۱-۵) [۱] ایک
 انگریزی میٹھا کھانا۔ پیٹن۔

پدکر - (پ۔ ۱) (۱) (۱-۵) [۱] باپ۔ والد۔ پتا۔ آبا۔ جج، ۱ پدراں۔
پدرا - (پ۔ ۱) (۱) (۱-۵) [۱] باپ کی طرح۔ باپ سے منسوب۔ باپ جیسا
پدروسختہ - (۱) (۱) (۱-۵) [۱] باپ سے منسوب۔ باپ جیسا
پدروم سلطان بود - (۱) (۱) (۱-۵) [۱] اس موت پر بولتے ہیں جب کوئی اپنے باپ
 دادا کے متعلق شے بھگا رہے۔
پدروتوا نڈ لیسر تمام گند - (۱) (۱) (۱-۵) [۱] باپ نے جو کام نہ کیا
 وہ بیٹے نے پورا کر دیا۔

پ۔ د۔ پ۔ ڈ۔ ذ۔ پ۔ ر

پڈیر - (پ۔ ۱) (۱) (۱-۵) [۱] باپ۔ والد۔ پتا۔ آبا۔ جج، ۱ پدراں۔
پڈرا - (پ۔ ۱) (۱) (۱-۵) [۱] باپ کی طرح۔ باپ سے منسوب۔ باپ جیسا
پڈروسختہ - (۱) (۱) (۱-۵) [۱] باپ سے منسوب۔ باپ جیسا
پڈروم سلطان بود - (۱) (۱) (۱-۵) [۱] اس موت پر بولتے ہیں جب کوئی اپنے باپ
 دادا کے متعلق شے بھگا رہے۔
پڈروتوا نڈ لیسر تمام گند - (۱) (۱) (۱-۵) [۱] باپ نے جو کام نہ کیا
 وہ بیٹے نے پورا کر دیا۔

پڈروو - (پ۔ ۱) (۱) (۱-۵) [۱] باپ۔ والد۔ پتا۔ آبا۔ جج، ۱ پدراں۔
پڈری - (پ۔ ۱) (۱) (۱-۵) [۱] باپ کی والد کی۔ پتا کی۔ باپ سے ورثے
 میں ٹی ہوئی۔
پڈری - (پ۔ ۱) (۱) (۱-۵) [۱] پدی۔ چھڈکی (۲) بے حقیقت۔ بہت کم زور
 ناچیز۔ ڈبلا پتلا۔

پ۔ د۔ پ۔ ڈ۔ ذ۔ پ۔ ر

پڈر - (پ۔ ۱) (۱) (۱-۵) [۱] باپ۔ والد۔ پتا۔ آبا۔ جج، ۱ پدراں۔
پڈرا - (پ۔ ۱) (۱) (۱-۵) [۱] باپ کی والد کی۔ پتا کی۔ باپ سے ورثے
 میں ٹی ہوئی۔
پڈری - (پ۔ ۱) (۱) (۱-۵) [۱] پدی۔ چھڈکی (۲) بے حقیقت۔ بہت کم زور
 ناچیز۔ ڈبلا پتلا۔
پڈرک - (پ۔ ۱) (۱) (۱-۵) [۱] باپ۔ والد۔ پتا۔ آبا۔ جج، ۱ پدراں۔
پڈرا - (پ۔ ۱) (۱) (۱-۵) [۱] باپ کی والد کی۔ پتا کی۔ باپ سے ورثے
 میں ٹی ہوئی۔
پڈری - (پ۔ ۱) (۱) (۱-۵) [۱] پدی۔ چھڈکی (۲) بے حقیقت۔ بہت کم زور
 ناچیز۔ ڈبلا پتلا۔

پڈک - (پ۔ ۱) (۱) (۱-۵) [۱] باپ۔ والد۔ پتا۔ آبا۔ جج، ۱ پدراں۔
پڈرا - (پ۔ ۱) (۱) (۱-۵) [۱] باپ کی والد کی۔ پتا کی۔ باپ سے ورثے
 میں ٹی ہوئی۔
پڈری - (پ۔ ۱) (۱) (۱-۵) [۱] پدی۔ چھڈکی (۲) بے حقیقت۔ بہت کم زور
 ناچیز۔ ڈبلا پتلا۔

پڈروو - (پ۔ ۱) (۱) (۱-۵) [۱] باپ۔ والد۔ پتا۔ آبا۔ جج، ۱ پدراں۔
پڈری - (پ۔ ۱) (۱) (۱-۵) [۱] باپ کی والد کی۔ پتا کی۔ باپ سے ورثے
 میں ٹی ہوئی۔
پڈری - (پ۔ ۱) (۱) (۱-۵) [۱] پدی۔ چھڈکی (۲) بے حقیقت۔ بہت کم زور
 ناچیز۔ ڈبلا پتلا۔
پڈرک - (پ۔ ۱) (۱) (۱-۵) [۱] باپ۔ والد۔ پتا۔ آبا۔ جج، ۱ پدراں۔
پڈرا - (پ۔ ۱) (۱) (۱-۵) [۱] باپ کی والد کی۔ پتا کی۔ باپ سے ورثے
 میں ٹی ہوئی۔
پڈری - (پ۔ ۱) (۱) (۱-۵) [۱] پدی۔ چھڈکی (۲) بے حقیقت۔ بہت کم زور
 ناچیز۔ ڈبلا پتلا۔

پیراز دُشمنال - (ن - صف) جس کے بہت سے دشمن ہوں۔
 پیراز زرد و خواہر - (ن - صف) مال و دولت سے بھرا ہوا۔
 پیراز نقتہ و شتر - (ن - صف) شرارتوں اور فسادوں سے بھرا ہوا۔
 پیراز اشک - (ن - صف) آبدیدہ - آنسوؤں سے پر۔
 پیرا فشاں - (ن - صف) افسانوں سے بھرا ہوا۔
 پیرالم - (ن - صف) غمگین - دردناک۔
 پیرباو - (ن - صف) ہوا سے بھرا ہوا۔ پھولا ہوا (۲) متورم (۳) معزور۔
 پیرباہر - (ن - صف) معاملہ۔
 پیربجر ہونا - (۱ - محاورہ) سخت مستعد ہونا۔
 پیربہار - (ن - صف) سرسبز پھولوں سے بھرا ہوا۔
 پیربیچ - (ن - صف) بیچ دار - ڈیڑھا - ترچھا۔
 پیرتاب - (ن - صف) روشنی - چمک اور نور سے بھرا ہوا۔
 پیرجفا - (ن - صف) ظالم - سفاک - جفاکار۔
 پیرحذر - (ن - صف) محتاط - ڈوراندیش - چوکس۔
 پیرحسرت - (ن - صف) حسرت سے بھرا ہوا۔
 پیرخار - (ن - صف) کانٹوں سے بھرا ہوا۔ تکلیف دہ۔
 پیرخاطر - (ن - صف) نظروں سے بھرا ہوا۔ خطرناک۔
 پیرتکلف - (ن - صف) بہت آراستہ - بڑی محنت اور اہتمام سے
 بنا ہوا۔
 پیرخیم - ڈیڑھا - ترچھا۔
 پیرخمار - (ن - صف) نشے سے بھر۔ مدہوش۔
 پیردرد - (ن - صف) درد سے بھرا ہوا۔
 پیردلی - بہادر - شجاع - جوی۔
 پیردلی - بہادری - شجاعت - دلیری۔
 پیرسوز - (ن - صف) جس کی آوازیں درد ہو۔
 پیرشکم - پیٹ بھرا - آسودہ۔
 پیرشکوہ - (ن - صف) عظمت والا - عظیم الشان۔
 پیرغم - (ن - صف) غم سے بھرا ہوا۔ اندوہناک - غمگین۔
 پیرفریب - (ن - صف) دھوکے باز - دغا باز۔
 پیرفضا - بہادر - گستاخ - وسیع - یاد دہ - خوش منظر - سرسبز۔
 پیرفن - (ن - صف) ہوشیار - چالاک - فنون میں ماہر۔
 پیرکار - (۱) بڑا - (۲) مرصع (۳) دیز - گاڑھا (۴) محکم - پائدار (۵)
 دانہ - ہوشیار۔
 پیرکین (کینہ) - (ن - صف) دشمن - بداندیش - کینہ ور۔
 پیرگو - (ن - صف) بہت باتیں کرنے والا - باتوئی۔
 پیرگوئی - (ن - صف) بہت باتیں بنانا - بہت بولنا۔
 پیرمتن - (ن - صف) وہ چارو یا دودھ جس کے حاشیے پر کام بنا ہوا۔
 پیرمغن - (ن - صف) ممنوع - ممناک۔
 پیرمغز - (ن - صف) عمدہ مضمون سے بھرا ہوا۔ عالمانہ۔
 پیرمطلال - (ن - صف) رنجیدہ - رنج سے بھرا ہوا۔

پیرپر زوں سے درست ہونا - (۱ - محاورہ) (۲) ہوش سنبھالنا - (۳) بالغ ہونا (۴)
 بناؤ سنگا کرنا (۵) تیار ہونا - (۶) صلح ہونا (۷) سامان تیار کرنا (۸) کمی بڑی کرنا۔
 (۹) مقابلے پر آمادہ ہونا۔
 پیرپر زے جھڑنا - (۱ - محاورہ) ضعیف ہونا - سکت نہ رہنا - قوت زائل ہونا۔
 پیرپر زے نکالنا - (۱ - محاورہ) ہوش سنبھالنا - بالغ ہونا - ہوشیار ہونا (۲)
 شرارت پر آمادہ ہونا (۳) جوین بٹھارنا۔
 پیرتولنا - (۱ - محاورہ) پرندے کا اڑنے کو تیار ہونا - آمادہ ہونا۔
 پیرتوٹنا - (۱ - محاورہ) (۲) پکھ ٹوٹنا - بال و پر ٹسکت ہونا (۳) قوت کم ہونا۔
 ہسارازہ بننا (۴) حمایتی کا مخالف سے سازش کر جانا۔
 پیرچلتے ہائیں - (۱ - بول چال) کسی کا گز نہیں - باریاں نہیں ہوکتی۔
 پیرچلنا - (۱ - محاورہ) (۲) طاقت نہ رہنا - کس بل جاتا رہنا (۳) خوف ہونا۔
 مرغوب ہونا (۴) رسائی نہ ہونا - پہنچ نہ ہونا۔
 پیرچٹنا - (۱ - محاورہ) (۲) پراگنا - مفرد پیدا ہونا - گھنڈ ہونا۔
 پیرچھاڑنا - (۱ - محاورہ) (۲) پیرگنا - کریم میں آنا (۳) بدوں کو جھٹلنا - بدوں کو
 کھولنا (۴) اڑنے کا ارادہ کرنا۔
 پیردار - بدوں والا - اڑنے والا - پرندہ۔
 پیرشکستہ - (ن - صف) ایزد ٹوٹا ہوا - مصیبت زدہ (۲) بے سہارا - بے کس۔
 پیرشیخ کرنا - (۱ - محاورہ) (۲) بدوں کو کاٹنا - بے پر کرنا (۳) بے بس کرنا - مجبور
 کرنا - عاجز کرنا۔
 پیرکا قلم - (۱ - مذ) کھینے کا قلم جو پر سے بنایا جاتا ہے۔
 پیرکا کو آ بٹا دینا - (۱ - محاورہ) حد سے زیادہ میلانہ کرنا - بات کا بٹنگڑ بنانا۔
 پیرکاہ - (ن - صف) بہت ہلکا۔
 پیرکلیک کے اڑ جانا - (۱ - محاورہ) تیزی سے اڑ جانا (۲) غائب ہو جانا۔
 پیرکک جانا - (۱ - محاورہ) (۲) اڑنے کے قابل ہونا (۳) تیز ہو جانا (۴) رونق
 بڑھانا - شان و شوکت زیادہ کرنا (۵) ترقی دینا (۶) ہوشیار ہو جانا۔
 پیرکگنا - (۱ - محاورہ) (۲) بال و پر پیرا ہو جانا - بازو اور پکھ نکلنا (۳) اڑانا -
 شیخی مارنا۔
 پیرکینا - (۱ - محاورہ) پیرکنا - پیرکنا - پیرکنا۔
 پیرکارنا - (۱ - محاورہ) (۲) اڑنا - پرواز کرنا - فضا میں جانا (۳) بدوں سے بچت
 دینا (۴) پیرچھڑانا - فاقہ پاؤں مارنا (۵) کوشش کرنا۔
 پیرنہ مارنا - (۱ - محاورہ) پاس نہ پھلنا - رسائی نہ ہونا۔
 پیرو بال نکالنا - (۱ - محاورہ) (۲) ہوش سنبھالنا - شعور ہونا - عقل پیدا ہونا (۳)
 جوین نکالنا (۴) شرارت پر آنا۔
 پیر - (ن - صف) (۱) بھرا ہوا - لبریز (۲) مکمل - بھرپور - بافراط۔
 پیرآب - (ن - صف) (۱) پانی سے بھرا ہوا (۲) آنسوؤں سے بھرا ہوا۔
 پیرآبلہ - (ن - صف) پھالوں سے بھرا ہوا۔
 پیرآرزو - (ن - صف) خواہش مند - آرزو رکھنے والا۔
 پیرآشوب - (ن - صف) فتنہ انگیز - فساد سے بھرا ہوا۔
 پیرآربان - (ن - صف) امیدوں سے بھرا ہوا۔
 پیرآزائیتان - (ن - صف) شوق سے بھرا ہوا۔

(۲) فرسودہ - بوسیدہ - مستعمل - کام میں آیا ہوا (۳) جہاں دیدہ (۴) پیر - بڈھا (۵) پرانے زمانے کا۔
 پُرانا پڑنا - (۱) عمارت، کھنڈہ، ہوجانا - بوسیدہ ہوجانا - فرسودہ ہوجانا۔
 پُرانا ٹھیکر - (۱) نثر، بوسیدہ چیز - پُرانا مال (۲) پُرانی عورت۔
 پُرانا ٹھیکر اور قلعی کی جھڑک - (۱) شل [۱] بڑھی عادت کی نسبت کہتے ہیں جو جوانوں کی سی وضع اختیار کرے۔
 پُرانا ترانٹ - (۱) صفت، (۲) بہت پُرانا - ہنایت بُوٹھا (۲) بڑا تجربہ کار - (۳) چالاک۔
 پُرانا ڈھرانا - (۱) صفت، (۲) بوسیدہ - دیرینہ - کھنڈ - فرسودہ - نکلتا - مستعمل - بیکار۔
 پُرانا ڈھڑا - (۱) مذ، پُرانی شکایت - پُرانا نثر۔
 پُرانا لھاگ - (۱) صفت، پُرانا تجربہ کار - گرگ باراں دیدہ۔
 پُرانی - (پ - را - بی) (۱) صفت [۱] ذی روح - جان دار (۲) انسان - بشر۔
 پُرانی - (پ - را - بی) (۱) صفت، (۲) کھن سالہ - دیرینہ - معینہ (۲) بوسیدہ - فرسودہ (۳) ناکارہ - جتنی ناقابل استعمال۔
 پُرانی آنکھیں دیکھنے ہوئے ہیں - (۱) شل، تجربہ کاریں - بڑوں کی صحبت سے فضا حاصل کیا ہے۔
 پُرانی کھوپری - (۱) پُرانا آدمی - معینہ آدمی - بُوٹھا آدمی (۲) تجربہ کار - کارآمد (۳) پُرانے رنگ کے - اگلے وقتوں کے۔
 پُرانی کیر کا فقیر - (۱) صفت، پُرانی وضع کا پابند - پُرانی رسومات کا متقلد۔
 پُرانی ملاقات - مدت کا میل جول - دیرینہ واقفیت۔
 پُرانے جاوول - رکنایت، تجربہ کار - چہاندیدہ۔
 پُرانے لوگ - (۱) صفت، (۲) ملازمان قدیم - پُرانے ذکر (۲) بُوڑھے - دانہ۔
 پُرانے مَرُوے اُکھیرنا - (۱) عمارت، پُرانی شکایتیں کرنا - اگلے پچھلے جھگڑے نکالنا۔
 پُرانوس - (Province) (پ - را - ونس) (۱) انگ - ۱ - مذ، صوبہ۔
 پُرانوشل - (Provincial) (پ - را - ون - شل) (۱) انگ - ۱ - مذ، صوبے کے متعلق - صوبائی۔
 پُرانوشل پولیس - کسی خاص صوبے کی پولیس جو اس سے باہر تبدیل نہ کی جاسکے۔
 پُرانوشل رسول مسروس - (Provincial Civil Service) صوبے میں غیر فوجی سرکاری افسروں کی بھرتی کا نظام۔
 پُرانویڈنٹ فنڈ - (Provident Fund) (پ - را - وی - ڈنٹ - فنڈ) (۱) انگ - ۱ - مذ، وہ رقم جو ملازم کی تنخواہ میں سے ہر ماہ ایک خاص شرح کے مطابق وضع کی جاتی ہے اور ملازمت کے خاتمے پر اُسے واپس ملتی ہے۔
 پُرانچیکہ - (پ - را - ایچ - وٹ) (۱) صفت، (۲) پُرانچ - پُرانچ فروش - پارچہ کا کام کرنے والا (۲) سٹے، ہونے پر لے لینے والا (۳) ایک قوم جو ٹوپیاں وغیرہ بنا کر فروخت کرتی ہے (۴) چیترا پُرانچے کا ٹکڑا۔
 پُرانچ - (Prize) (پ - را - از) (۱) انگ - ۱ - مذ، انعام - صلہ - اجر۔
 پُرانچر - (Primer) (پ - را - مر) (۱) انگ - ۱ - صفت، (۲) قاعدہ - طالب علم

کی ابتدائی کتاب۔
 پُرانم فٹسٹر - (Prime Minister) (پ - را - ام - م - نس - ٹر) (۱) انگ - ۱ - مذ، وزیر اعظم - سب سے بڑا وزیر۔
 پُرانٹری - (Primary) (پ - را - ای - م - ٹری) (۱) انگ - ۱ - ابتدائی اڈل - پہلا - سب سے پہلا (۲) اصلی۔
 پُرانی - (پ - را - ای) (۱) صفت، (۲) حیرت کی - دوسرے کی - پُرانی کی تائینٹ۔
 پُرانی کس چوٹھے پاس - (۱) شل، دوسرے کے سہارے نہ رہنا چاہیے۔
 پُرانی آگ میں کودنا - (۱) عمارت، دوسرے کی مصیبت اپنے سر لینا۔
 پُرانی آنکھیں کام نہیں آتیں - (۱) شل، دوسرے کے سہارے پر کام درست نہیں ہوتا - حیرت منگوا کر کام نہیں آتا۔
 پُرانی بات - (۱) صفت، (۲) حیرت کی بات - دوسرے کا معاملہ۔
 پُرانی کیا پڑھی ہے - (۱) شل، دوسروں کی کیا فکر ہے۔
 پُرانی موہیٹ - (Private) (پ - را - ای - ویٹ) (۱) انگ - ۱ - نجی - خاکی (۲) غیر سرکاری (۳) انفرادی - ذاتی - شخصی (۴) محض - خفیہ - راز کا - ہمیشہ راز۔
 پُرانی - (پ - را - یا) (۱) صفت، (۲) غیر کا - اور کا - دوسرے کا - بیگانہ - اجنبی۔
 پُرانی دھن (مال) - کنواری لڑکی۔
 پُرانی مسر دیوار کی برابر - (۱) شل، اس وقت بولتے ہیں جب کوئی دوسرے کی تکلیف کی پرواہ نہ کرے۔
 پُرانے بڑے آزاد کرنا - (۱) عمارت، دوسروں کے مال پر فیاضی کرنا۔
 دوسرے کی کمائی پر غر کرنا۔
 پُرانے بس میں - دوسرے کے اختیار میں (ہونا کے ساتھ)۔
 پُرانے مسر کی بلا لینا - (۱) عمارت، دوسرے کی مصیبت اپنے ذمہ لینا۔
 دوسرے کی ذمہ داری اپنے سر لینا۔
 پُرانے شکون کے لیے اپنی ناک کٹائی - (۱) شل، دوسروں کے فائدے کے لیے اپنا نقصان کرنا۔
 پُرانے گھر کا ہونا - (۱) عمارت، بیٹی کی شادی ہونا۔ لڑکی کا بیاہ کر دینا۔
 پُرانے مال پر دیرے لال - (۱) شل، دوسرے کی چیز پر بیجا غرور۔
 پُرانے مال پر یا حسین - (۱) شل، حلائی کی دوکان پر دادا جی کی فاتحہ - غیر کے مال پر شیشی بھگانا - چیز کسی کی اور خا کوئی اور ہوا۔
 پُرانے لاتھ پر شکر پالنا - (۱) شل، دوسرے کے بھروسے کوئی کام کرنا۔
 دوسرے کے سہارے زندگی بسر کرنا۔
 پُرانی مسر لال دیکھ کر اپنا مسر چھوڑنا - (۱) عمارت، دوسروں کی نقل کر کے اپنا نقصان کرنا۔
 پُران - (۱) مذ، (۲) باب - مقدمہ - فضل - آدھیانے (۲) میلہ - ہجوم - بھیڑ۔
 پُران - (۳) ہیرے کی قسم (۴) جوڑ - گانٹھ - گرہ - عضو۔
 پُران باس - (پُر - باس) (۱) مذ، سفر - سیاحت۔
 پُران بت - (پُر - بت) (۱) مذ، پیار - کوہ - جبل۔
 پُران بیٹی - (پُر - بی - تی) (۱) صفت، (۲) پیارٹی - پیار کا کہنے والا۔
 پُران بندھ - (پُر - بندھ) (۱) ص - ۱ - مذ، بندوبست - انتظام - انصرام - ٹھیک ٹھاک

پَر بُولی - دق (۱-۱۰) مٹ [خیز زبان - خیز کل زبان -

پَر بھات - (پَر - بھات) (دس - ۱۰) مذ [علی الصبح - صبح سویرے -

پَر بھاؤ (پَر - بھاؤ) (دس - ۱۰) مذ [اثر - فیض - تاثیر کشش (۲) مزاج -

خاصیت - سرشت - عادت - حالت (۳) طاقت - قوت -

پَر بھو - (پَر - بھو) (دس - ۱۰) مذ [مالک - سوامی - ناٹھ - صاحب (۲) برتر -

ناق - غالب (۳) ایک دیوتا (۴) خدا - پریشور -

پَر بین - (پَر - بین) (اُڑ - ۱) مذ [ہوشیار - بخت - عقل مند (۲) ہنرمند - کاریگر -

کام کا جاننے والا (۳) حسین - جمیل -

پَر پَرانا - (پَر - پَر - پَرانا) (دس - ۱۰) معن [پَر پَرانا - بدن میں سنسنی پیدا ہونا -

پَر پُنج - (پَر - پُنج) (دس - ۱۰) مذ [غریب - دھوکا -

پَر پوتتا - (پَر - پوتتا) (دس - ۱۰) مذ [بیٹے کا پوتتا -

پَر پوتی - (پَر - پوتی) (دس - ۱۰) معن [بیٹے کی پوتی -

پَر پھلا - (پَر - پھلا) (دس - ۱۰) معن [پھول کی طرح بھلا ہوا - ہشاش بشاش -

پَر پٹیل - (پَر - پٹیل) (دس - ۱۰) مذ [پٹیل کا تیسرا بڑے - تیسری نقل - طبق ثالث -

پَر پڑت - (پَر - پڑت) (دس - ۱۰) مذ [درق - تختہ - طبق - چھلکا - تہ - پوست - پیڑی -

پَر پڑتا - (پَر - پڑتا) (دس - ۱۰) مذ [اوسط (۲) مناسبت - نسبت - موزوں -

پَر پڑتا پ - (پَر - پڑتا پ) (دس - ۱۰) مذ [سخت گرمی -

(۲) زب و زینت - شان و شوکت (۳) مرتبہ (۴) برتری (۵) سخاوت - مہربانی -

پَر پڑتا ل - (پَر - پڑتا ل) (اُڑ - ۱) معن [دیکھ بھال - جاچ - جاگڑہ - نظر ثانی -

دوبارہ دیکھنا -

پَر پڑتگالی - (پَر - پڑت - گالی) (دس - ۱۰) معن [پَر پڑتگالی سے متعلق پَر تگالی کی

کوئی شے - پَر تگالی کا باشندہ یا زبان -

پَر پڑگیلا - (پَر - پڑگیلا) (یا - دس - ۱۰) معن [اجانت - منظوری (۲) وعدہ بھد

پَر پڑتل - (پَر - پڑتل) (دس - ۱۰) مذ [دس سالان جو بیل یا گھوڑے پر لا دیا جائے -

پَر پڑتل کا ٹھو - (دس - ۱۰) مذ [لدائیتو - مزدور آدمی -

پَر پڑتلا - (پَر - پڑتلا) (دس - ۱۰) مذ [پہلی جو تلوار لٹکانے کے لیے کندھے پر

ڈالنے ہیں پوڑا تہہ - پٹا - بیٹل - کمر پٹکا -

پَر پڑتو - (پَر - پڑتو) (دس - ۱۰) مذ [سایہ - عکس - پَر پھائیں (۲) روشنی -

پَر پڑکن چمک

پَر پڑتو لکن - پَر پڑتو لکن - شام ڈالنے والا - روشنی ڈالنے والا -

پَر پڑتوا - (پَر - پڑتوا) (اُڑ - ۱) مذ [سایہ عکس (۲) محبت کا اثر - فیض محبت -

پَر پڑتھووی - (پَر - پڑتھووی) (دس - ۱۰) معن [زمین - دنیا - ارض - بھوی - عالم -

پَر پڑتی - (پَر - پڑتی) (دس - ۱۰) معن [خیز زمین - زمین ارامنی -

پَر پڑتے - (دس - ۱۰) معن [بساط - محضت -

پَر پڑتیت - (پَر - پڑتیت) (دس - ۱۰) معن [یقین - بھروسا - اعتماد - اعتبار -

پَر پڑتج - (دس - ۱۰) معن [ایک راگنی - ڈھال کا دستہ - تلوار کا تھنہ -

پَر پڑجا - (پَر - پڑجا) (دس - ۱۰) معن [۱) رعایا - عکوم (۲) گویہ دار - پرانی جگہ میں رہنے

والا (۳) مخلوق - عام لوگ (۴) خاندان - گنہہ - مالک کی خدمت -

پَر پڑجائیت - (پَر - پڑجائیت) (دس - ۱۰) معن [۱) راجہ - بادشاہ - حاکم - سرکار - مالک (۲) خاق

پیدا کرنے والا (۳) سونگ (۴) گزہ - گزہ - گزہ (۵) داد (۶) باپ -

پَر پڑجوت - (پَر - پڑجوت) (دس - ۱۰) معن [مکانات کی زمین کا محمول - مقدرہ لگان - چکڑنا

پَر پڑج - (دس - ۱۰) معن [پہیلی - پٹھری - چھوٹی پٹھری -

پَر پڑجا - (پَر - پڑجا) (دس - ۱۰) مذ [۱) پڑکھ - شاخت - بھجان (۲) ثبوت (۳) امتحان -

(۴) مجموعہ - اتمام - محنت - بڑھان قاطع (۵) خوش خبری -

پَر پڑجادینا - (پَر - پڑجادینا) (دس - ۱۰) معن [کرامت دکھانا - بشارت دینا (۲) خوش کر لینا -

پَر پڑجاکگ - (پَر - پڑجاکگ) (دس - ۱۰) مذ [۱) مبلغ (۲) پروا (۳) نصیب -

پَر پڑجاری - (پَر - پڑجاری) (دس - ۱۰) معن [۱) خدمت کرنا - ملازمت کرنا - تابعداری

کرنا (۲) ملازم - نوکر -

پَر پڑچانا - (پَر - پڑچانا) (دس - ۱۰) معن [۱) رضی کرنا (۲) پہلانا - پھیلانا (۳) رجوع

کرنا - مانوس کرنا (۴) بس میں لانا -

پَر پڑتج - (پَر - پڑتج) (اُڑ - ۱) مذ [پڑزے -

پَر پڑتج اڑ جانا - (پَر - پڑتج اڑ جانا) (دس - ۱۰) معن [پڑزے پڑزے جو جانا -

پَر پڑچک - (پَر - پڑچک) (دس - ۱۰) معن [۱) پیار - چمکار - چمکی (۲) قسب - دلاسار - اطمینان

(۳) حمایت - سہارا (۴) اشارہ کرنا -

پَر پڑچک دینا - (پَر - پڑچک دینا) (دس - ۱۰) معن [۱) حمایت کرنا (۲) اشارہ کرنا (۳) مدد کرنا -

سہارا دینا (۴) دلیر کرنا -

پَر پڑچک لینا - (پَر - پڑچک لینا) (دس - ۱۰) معن [۱) حمایت لینا - پشتی لینا - طرف داری کرنا -

پَر پڑچیم - (پَر - پڑچیم) (دس - ۱۰) معن [۱) پھر پھر - پھر پھر - پھر پھر - پھر پھر - پھر پھر -

(۲) زلف - کالٹی -

پَر پڑچیم اڑانا - (پَر - پڑچیم اڑانا) (دس - ۱۰) معن [پہلانا - پھیلانا -

پَر پڑچنا - (پَر - پڑچنا) (دس - ۱۰) معن [۱) رضی کرنا - بل جانا - مانوس ہونا - مانس

ہونا (۳) پہلنا - باتوں میں آنا -

پَر پڑچول - (پَر - پڑچول) (دس - ۱۰) معن [۱) ٹول - دریاخت - پھان بین (۲)

دھت - لت - دھن -

پَر پڑچون - (پَر - پڑچون) (دس - ۱۰) معن [مترق سودا - آٹا - وال - نمک -

پَر پڑچوٹی - (پَر - پڑچوٹی) (دس - ۱۰) معن [آٹا وال بیچنے کا کام -

پَر پڑچوٹیا - (پَر - پڑچوٹیا) (یا - دس - ۱۰) معن [۱) بقال (۲) خردہ فردش -

چھوٹی مقدار کا سودا بیچنے والا -

پَر پڑچہ - (پَر - پڑچہ) (دس - ۱۰) معن [۱) خط - چھٹی - رقمہ - تحریر (۲) لکھا ہوا کاغذ

اخبار - رسالہ (۳) پڑزہ - لکھا - پھیلنا - کسرتن - ڈھجی (۴) امتحانی سوالات

کا کاغذ - جمع پر چہ جات -

پَر پڑچہ الماس - ہیرے کا ٹکڑا -

پَر پڑچہ جاک کرنا - (پَر - پڑچہ جاک کرنا) (دس - ۱۰) معن [پہلیں میں ابتدائی پرورٹ کا لکھا جانا -

پَر پڑچہ دینا - (پَر - پڑچہ دینا) (دس - ۱۰) معن [مقدّمہ درج رجسٹر کرنا -

پَر پڑچہ گزونا - (پَر - پڑچہ گزونا) (دس - ۱۰) معن [۱) خبر پینا - اطلاع لینا - علم میں آنا (۲) نالاش ہونا -

درخواست گنا (۳) جاسوسی ہونا (۴) حقیقت کا جاننا -

پَر پڑچہ نویس - (پَر - پڑچہ نویس) (دس - ۱۰) معن [۱) خبر - جاسوس - خیمہ کارروائی کرنے والا (۲) مورخ - واقعات

لکھنے والا (۳) خطاط - خط لکھنے والا -

پَر پڑچہ نویس - (پَر - پڑچہ نویس) (دس - ۱۰) معن [۱) خبری - جاسوسی (۲) تاریخ نویس - وقایع نگاری - خط لکھنا

پَر پڑچہ لکھنا - اخبار نویس کرنا -

پر دے کی دیوار - (۱۔ مٹ) حجاب کی دیوار۔ پردے کی معرض سے دروازے کے سامنے کی دیوار۔

پر دے کے لوگو پر دے ہو۔ جب کوئی شخص اپنے کوٹھے پر بڑھنا چاہتا ہے تو اس پاس کے لوگوں کے لیے اس طرح تین بار پکارتا ہے تاکہ کسی پردہ نشین کا سامنا نہ ہو جائے۔

عرش بریں پر رہنے والوں کو پردے سے کہو پردے ہو
بام فلک پر بڑھتا ہے نالہ پردے کے لوگو پر دے ہو (انشاء)
پر دے میں پوچھنا۔ (۱۔ محاورہ) اس طرح پوچھنا کہ مخاطب کو پوچھنے کا مقصد معلوم نہ ہو سکے۔

پر دے میں زردہ لگانا۔ پردے میں سوراخ کرنا (۱۔ مٹ) پردے پر دے میں شکار کھیلنا۔ پردے میں گرہ لگانا (۱) میں بدکاری کرنا۔ پردہ نشین عورت کا حرام کاری کرنا۔

پر دھان - (پر۔ دھان) (۱۔ مٹ) رہنا۔ صدر نگہیا۔

پر دیس - (پر۔ دیس) (۱۔ مٹ) غیر وطن۔ دوسرا ملک۔ غربت۔

پر دیس جانا۔ (۱) دوسرے ملک میں جانا۔

پر دیس چھانا۔ (۱) دوسرے وطن جا رہنا۔ ترک وطن کرنا (۲) غیر ملک میں تجارت یا نوکری کرنا۔

پر دیس - (پر۔ دے۔ سن) (۱۔ مٹ) اجنبی عورت۔ مسافر عورت۔

غیر وطن کی عورت۔

پر دیسی - (پر۔ دے۔ سی) (۱۔ مٹ) غیر ملک کا۔ بدیسی (۲) مسافر۔

عزیمہ الوطن۔

پر دیسی بلم تیری آس نہیں { [ش] پر دیس میں رہنے والے شوہر

باسی پھولوں میں باس نہیں } سے دفا داری کی امید نہیں۔ جیسے باسی پھولوں میں خوشبو نہیں ہوتی۔

پر ذات - (ق۔ صغ) غیر ذات۔ کم اصل۔ کم ذات۔

پر زہ - (پر۔ زہ) (ف۔ ۱۔ مٹ) (۱) کتر۔ دجی۔ چھیڑا۔ ٹکڑا (۲) عضو۔ بڑو (۳) برہنہ کے چھوٹے چھوٹے پارے بڑ (۴) دوات کا صوف (۵) ریشی اور اونی کپڑے کا رُوں (۶) کسی مشین کا چھوٹا حصہ۔

پر زے اڑانا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔ دھجیاں بکھیرنا چھتیڑے اڑانا (۲) چور چور کرنا (۳) پارہ پارہ کرنا (۴) بیکار کر دینا (۵) بڑیاں کاٹنا (۶) اُدھرتنا (۷) خوب مارنا (۸) بہت مزادینا۔

پر زے پر زے کرنا۔ (۱۔ محاورہ) ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔

پر زے پر زے ہونا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) پھینک دینا۔

(۲) پر پنے اڑانا (۳) ٹکڑے اڑانا (۴) شکستہ دیکار ہو جانا (۵) بڑیاں اڑانا (۶) سزا پانا (۷) اُدھرتنا بڑو بڑو جدا ہونا۔

پرس - (Purse) (انگ۔ ۱۔ مٹ) بڑو۔ روپیہ رسید رکھنے کا چھوٹا سا بیگ۔

پرس - (ف۔ ۱۔ مٹ) فارسی مصدر پر سیدک کا اسم صفت۔ پڑھنے کا عمل

اردو میں فقط بطور لاحقہ استعمال ہوتا ہے جیسے باز پرس۔ انگ مستقل نہیں (۱۔ مٹ) آدمی کا بدن۔ برش۔

پرسا - (پر۔ سا) (ف۔ ۱۔ مٹ) ماتم پرسی۔ تعزیت۔

پر دہ درمیان سے اُٹھ جانا۔ (۱۔ محاورہ) حجاب نہ رہنا۔

پر دہ دنیا۔ (ف۔ ۱۔ مٹ) سطح زمین۔ طبقہ زمین۔

پر دہ دری۔ عیب نمائی۔ جاؤس۔ نجری۔ افشائے راز۔

پر دہ ڈالنا۔ (۱) عیب پھیلانا۔ راز داری کرنا (۲) چن کھولنا۔ چلن ڈالنا۔ (۳) گھونٹ کرنا۔ برف اڈھنا۔

پر دہ ڈھانکنا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) عیب چھپانا (۲) دنیا سے اٹھانا۔ مرنا۔

پر دہ رکھ لینا۔ رکھنا۔ (۱) پردہ کرنا۔ حجاب کرنا۔ چھپنا (۲) راز دار ہونا۔

مخفی رکھنا (۳) عیب چھپانا۔

پر دہ رہ جانا۔ (۱۔ محاورہ) ذات سے پھنا۔ شرم رہ جانا۔ بات رہ جانا۔

پر دہ سہرا۔ (۱) سہرا پردہ۔ نیمہ (۲) مطرب۔ گویا۔

پر دہ ظلمت۔ (ف۔ ۱۔ صغ) تاریکی۔ اندھیری رات۔

پر دہ عصمت۔ (ف۔ ۱۔ مٹ) عصمت کا پردہ سے استعارہ ہے۔ داغ

لگنا یا لگانا (افعال) پھاڑنا۔ پھینا۔ خراب کرنا۔

پر دہ عنکبوت۔ (ف۔ ۱۔ مٹ) کڑی کا حال۔ آنکھ کا ایک پردہ۔

پر دہ عینیب۔ (ف۔ ۱۔ مٹ) عالم باطن۔ پختے اور اُوپر کے جہان کا درمیانی پردہ (طنزاً) بربات خدا کی طرف سے یا اتفاقاً جو اس کے مشفق کہتے ہیں۔

پر دہ فاش کرنا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) راز کا افشا کرنا۔ عیب کھولنا (۲) اصیت کا ظاہر کرنا۔ بھید ظاہر کرنا۔

پر دہ کرنا۔ (۱۔ محاورہ) پردے میں رہنا۔ گھونٹ کرنا۔ چھپنا۔

پر دہ کھولنا۔ (۱۔ محاورہ) بھید کھولنا۔ عیب ظاہر کرنا۔

پر دہ کرنا۔ (۱۔ محاورہ) چلن چھوڑنا۔ پردہ ڈالنا۔ چن کرنا۔ گھونٹ کرنا۔

پر دہ کوش۔ (ف۔ ۱۔ مٹ) کان کے اندر کی جھلی۔

پر دہ لگنا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) پردہ ہونا۔ پردے میں پھینا۔ چھپنے لگنا (۲) بد چلن عورت کا پردہ کرنا۔

پر دہ ناموس۔ (ف۔ ۱۔ مٹ) (۱) عصمت کا پردہ۔ عصمت کا پردہ (۲) (بخارا) عزت۔ آبرو۔

پر دہ نشین۔ (ف۔ مٹ) (۱) پردے میں بیٹھنے والی (۲) پاک دامن۔ باجیا۔

پر دہ ہو جانا (ہونا)۔ (۱۔ محاورہ) (۱) اڑ میں آ جانا۔ اوٹ ہو جانا۔ چھپ جانا (۲) جہرہ پھیلا لینا۔ پوشیدہ ہو جانا۔

پر دہ ہے۔ (۱) اوٹ ہے۔ اڑ ہے (۲) چھپے ہوئے ہیں۔ پردے میں ہیں (۳) یہاں نہ آنا۔

پر دے بھٹانا۔ (۱۔ محاورہ) باہر کا آنا جانا بند کرنا۔ پردہ کرنا۔ پردہ نشین کرنا۔

پر دے پردے میں۔ (۱) خفیہ۔ چوری چھپے (۲) اڑ میں۔ اوٹ میں (۳) بے خبری میں۔

پر دے سے لگنا۔ (۱۔ محاورہ) پردے کے قریب بیٹھنا۔

پر دے کی بات۔ (۱۔ محاورہ) راز کی بات۔ خفیہ معاملہ۔

پر دے کی (بڑو) بی بی۔ (۱۔ مٹ) (۱) پردے میں رہنے والی (۲) شریف عورت (۳) طنزاً بد چلن عورت۔

پر دے کی بی بی چٹائی کا لہنگا۔ (۱۔ مٹ) جب کوئی غریب عورت پردہ کرتی ہے تو کہتے ہیں۔

پرسیا دینا۔ (۱۔ محاورہ) ۱) ماتم پرسی کرنا۔ تعزیت کرنا ۲) پس ماندوں کی تسلی و تسنی کرنا۔

پرسیا لینا۔ (۱۔ محاورہ) ۱) موت کی خبر سن کر رونے ۲) ماتم پرسی کو منظور کرنا۔

(۳) پس ماندوں کا تسلی و تسنی کی باتیں سنانا۔

پرسیا سال۔ (پرسیا سال) ۱) ف۔ ۱۔ مذ۔ گذشتہ سال۔ پچھلے سال۔ پارسا سال۔

پرسیا سال۔ (پرسیا سال) ۱) ف۔ ۱۔ صفت ۱) پوچھنے والا۔ دریا فت کرنے والا۔

(۲) مددگار۔ سہارا دینے والا۔ معاون (۳) دوست۔ بار۔

پرسیا سال۔ (۱) حال پوچھنے والا (۲) مددگار۔ اعانت کرنے والا۔

پرسیا ست۔ (پ۔ رست) ۱) ف۔ صفت پرستش کرنے والا۔ پوچھنے والا۔

پرسیا ستار۔ (پ۔ رس۔ تار) ۱) ف۔ ۱۔ مذ۔ ۱) پوچھا کرنے والا۔ پجاری (۲) نوکر۔ غلام (۳) شیدا۔ مرید۔ جمع۔ پرستاروں۔

پرسیا ستار زادہ۔ (پ۔ رس۔ تار) ۱) ف۔ منقولہ لوئی کی پتھر کسی کام نہیں آتا۔ اگرچہ بود زادہ شہر یار { خواہ وہ بادشاہ کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔ کینے بے فیض ہوتا ہے۔

پرسیا ستان۔ (پ۔ رس۔ تان) ۱) ف۔ ۱۔ مذ۔ ۱) پر یوں کے رہنے کی جگہ۔ پر یوں کا ملک (۲) اندر کا اکھڑا۔

پرسیا ستان کا عالم۔ (۱) پر یوں کا سا ملک۔ پر یوں کے دس کی سی کیفیت۔

پرسیا ستان کا سلطنت۔ (یعنی پرستان۔

پرسیا ستش۔ (پ۔ رس۔ نیش) ۱) ف۔ ۱۔ مٹ ۱) عبادت۔ پوجا۔ بندگی۔ پستی۔ تسلیم۔ آداب۔ بزرگی۔ عظمت۔ توقیر۔ عزت (۲) مجز۔ انکسار۔

پرسیا ستش کا۔ ۱) عبادت کی جگہ (۲) مسجد۔ مندر۔ شوالہ۔ معبد۔

پرسیا شش۔ (پرسیا شش) ۱) ف۔ ۱۔ مٹ ۱) پوچھ گچھ۔ تفتیش۔ پوچھنا۔ استفسار۔ (۲) دیکھ بھال (۳) عزت۔ تعظیم۔ آد بھگت۔

پرسیا شش حال۔ حال پوچھنا۔ کیفیت دریافت کرنا۔

پرسیا شش کرنا۔ (۱) پوچھ گچھ کرنا۔ تحقیق کرنا۔ دریافت کرنا۔ باز پرس کرنا بجا و طلب کرنا (۲) دیکھ بھال کرنا۔

پرسیا سن۔ (پرسیا سن) ۱) ص۔ صفت (۱) خوش۔ آئندہ۔ مگن۔ محفوظ (۲) بے فکر۔ بے غل و غش۔ بے غم و درج۔ راضی۔ خوش۔ تندرست۔

پرسیا سنا۔ قدم بوسی (ق)۔

پرسیا سندھ۔ (پرسیا سن۔ ۵)۔ (۱) آؤ۔ ۱۔ مذ۔ پسندہ کا بگاڑا ہوا ہے۔ کباب۔ پسندہ۔

پرسیا سنگ۔ (پرسیا سنگ) ۱) ص۔ ۱۔ مذ۔ ۱) بابت متعلق۔ درمیان (۲) صحبت۔ میل جول۔ ربط۔ ضبط۔ ہم نشینی۔ واسطہ۔ سابقہ (۳) موقع۔ جگہ۔

پرسیا سنل۔ (Personal) (پرسیا سن۔ نل) ۱) آؤ۔ ۱۔ مذ۔ ذاتی۔ نجی۔

پرسیا سنل اسسٹنٹ۔ (Personal Assistant) ایک ہنڈار

جو کسی افسر کے مددگار یا سیکرٹری کی حیثیت سے کام کرتا ہو۔

پرسیا سنل پراپرٹی۔ (Personal Property) ذاتی جائیداد۔

اپنی میراث کی ہونی جائیداد۔

پرسیا سنل سیکورٹی۔ (Personal Security) ذاتی یا شخصی

صنانت۔ وہ ضمانت جس کا دینے والا خود ذمہ دار ہو۔

پرسیا سوت۔ (پرسیا سوت) ۱) ص۔ ۱۔ مذ۔ ۱) عورتوں کے انعام نہانی سے سفید

پانی کا بہنا (۲) ایام زچگی کی ایک بیماری (۳) پیدا ہوا۔ بنا ہوا۔

پرسیا سوں۔ (پرسیا سوں) ۱) مذ۔ ۱۔ آج سے تیس دن۔ اگلا یا پچھلا۔

پرسیا سوسہ۔ (پرسیا سوسہ) ۱) ف۔ ۱۔ مذ۔ ماتم پرسی۔ تعزیت۔ دیکھنے پرسیا۔

پرسیا سوشال۔ (پرسیا سوشال) ۱) ف۔ ۱۔ مذ۔ ایک قسم کی بوٹی۔ سبٹل یا چھپر۔

پرسیا شش۔ (پرسیا شش) ۱) ف۔ ۱۔ مذ۔ انسان۔ آدمی۔ مرد۔ شخص (۲) پریشور۔ خدا۔ پرماتما۔ آتما (۳) خاندان۔ مالک۔

پرسیا شش کی مایا اور درخت کی چھایا۔ (۵۔ مثل) انسان کی دولت اور درخت کے سائے کا کوئی اعتبار نہیں۔

پرسیا شاد۔ (پرسیا شاد) ۱) ف۔ ۱۔ مذ۔ ۱) دیوتاؤں پر کا پڑھا ہوا۔ تبرک (۲) اُستاد۔

یامرش کا چھوٹا (۳) کھانا۔ طعام۔

پرسیا شاد پوچھنا۔ (محاورہ) نزدیکیا کرنا۔ بھیٹ پوچھنا۔

پرسیا شوتم۔ (پرسیا شوتم) ۱) ص۔ ۱۔ مذ۔ عظیم ترین شخصیت۔ بزرگ ذات۔

پرسیا شہر۔ (پرسیا شہر) ۱) ف۔ ۱۔ مذ۔ غیر شہر۔ پردیس۔

پرسیا کاج۔ (پرسیا کاج) ۱) ف۔ ۱۔ مذ۔ غیر کا کام۔ دوسرے کا کام۔

پرسیا کار۔ (پرسیا کار) ۱) ف۔ ۱۔ مذ۔ اڑھ کھینے کا آلہ۔

پرسیا کار۔ (پرسیا کار) ۱) ص۔ ۱۔ مذ۔ ۱) قسم۔ نوع۔ جنس۔ بھانت۔ ذریعہ (۲) طور۔ طریق۔ صورت۔ ڈھنگ (۳) مشابہت (۴) اختلاف (۵) اخصویت۔

پرسیا کار۔ (پرسیا کار) ۱) ف۔ صفت موٹا۔ دبیز۔ داننا۔ عیار۔ ہوشیار۔

پرسیا کاش۔ (پرسیا کاش) ۱) ص۔ ۱۔ مذ۔ ۱) ظاہر (۲) فاش (۳) مشہور (۴) روشن (۵) صفائی۔ چمک (۶) نور (۷) شان و شوکت۔

پرسیا کالا۔ (پرسیا کالا) ۱) ف۔ ۱۔ مذ۔ ۱) زینہ۔ سیڑھی (۲) چوکھٹ۔ دہلیز۔

پرسیا کالہ۔ (پرسیا کالہ) ۱) ف۔ ۱۔ مذ۔ ۱) کھٹا۔ ٹھنڈ۔ چھتہ۔ پارہ۔ جڑ (۲) چنگاری۔ شعلہ۔ کپٹ۔ شمع (۳) آئینہ۔ درجین۔

پرسیا کالہ آتش۔ (پرسیا کالہ آتش) ۱) ف۔ ۱۔ صفت نہایت تیز۔ عیار۔ طرار۔ چالاک۔ شور۔

پرسیا کالہ۔ (پرسیا کالہ) ۱) ص۔ ۱۔ مٹ ۱) طواف۔ گردا گرد۔ گھومنا (۲) تصدق۔ نثار۔ دار پھیر۔

پرسیا کالہ لگانا۔ (محاورہ) ۱) طواف کرنا۔ چاروں طرف چکر لگانا (۲) صدقے ہونا۔ نثار ہونا۔ قربان ہونا۔

پرسیا کالہ۔ (پرسیا کالہ) ۱) ص۔ ۱۔ مٹ ۱) مہویت۔ عزت۔ ضرورت۔

پرسیا کالہ۔ (پرسیا کالہ) ۱) ص۔ ۱۔ مذ۔ ۱) بچان۔ شناخت۔ وقوف۔ گیان (۲) عیار۔ کسوٹی۔ امتحان۔ آزمائش (۳) آنک۔

پرسیا کالہ۔ (پرسیا کالہ) ۱) ص۔ ۱۔ مٹ ۱) انسان۔ آدمی۔ مرد۔

پرسیا کالہ۔ (پرسیا کالہ) ۱) ص۔ ۱۔ مٹ ۱) انسان۔ آدمی۔ مرد۔

پرسیا کالہ۔ (پرسیا کالہ) ۱) ص۔ ۱۔ مٹ ۱) انسان۔ آدمی۔ مرد۔

پرسیا کالہ۔ (پرسیا کالہ) ۱) ص۔ ۱۔ مٹ ۱) انسان۔ آدمی۔ مرد۔

جا بجا پھرتا ہے۔

پرسیا کالہ۔ (پرسیا کالہ) ۱) ص۔ ۱۔ مذ۔ ۱) پکھنے والا۔ چا پھنے والا۔

پرسیا کالہ۔ (پرسیا کالہ) ۱) ص۔ ۱۔ مذ۔ ۱) بڑے بڑے۔ باب داد (۲) نیک لوگ۔

پرسیا کالہ۔ (پرسیا کالہ) ۱) ص۔ ۱۔ مذ۔ ۱) چرانا۔ کسوٹی پر لگانا۔ امتحان کرنا (۲) شناخت کرنا (۳) حوالے کرنا۔ سوچنا (۴) گنونا۔

پرسیا کالہ۔ (پرسیا کالہ) ۱) ص۔ ۱۔ مذ۔ ۱) نا۔ ۵۔ مٹ ۱) بیچنا۔ شناخت کرنا (۲) جانچنا۔ امتحان کرنا۔ آزمائش (۳) آنک۔

پیرکھیا - (پیرکھی یا) وہ - ۱ - اند - ۱۱) پیرکھنے والا - چا پھنے والا (۲) امتحان کرنے والا
 (۳) آنسو (۴) گھٹنے والا - سنبھالنے والا (۵) صرف -
 پیرگت بلنا - (پیرگت - ریل - نا) وہ - ۱ - مس - میل ملاپ ہونا -
 پیرگھٹ - پیرگھٹ - وق - صفت (۲) نفا ہر - واقع - جلانیہ - مزاج - آشکارا -
 پیرگم - وق - صفت (۱) نگر مند (۲) پیرا سرار - گہرا (۳) مشکل -
 پیرگنات - پیرگنہ جات - (پیرگ - نات) (پیرگ - نہ - جات) (۱) - اند -
 پیرگنہ کی جمع - دیہات -
 پیرگنہ - (پیرگ - نہ) (۱) - اند - ۱۱) علاقہ - حصہ - ضلع - ٹکڑا - وہ علاقہ جو ایک
 قانون کے تحت ہو - وہ محدود حصہ ضلع جس پر ایک ضلع دار افسر ہو -
 پیرگنہ - تعلقہ - جاگیر (۲) ایک نوکتبہ -
 پیرگنہ دار - ضلع دار - پیرگنہ کا افسر -
 پیرگنہ دار - پیرگنہ کے حساب سے -
 پیرگنات - (۱) - اند - ۱۱) علاقہ -
 پیرگھٹی - (پیرگھٹی) (۱) - اند - ۱۱) صفت (۲) لہجے کا سا پیرگھٹی میں سونے یا چاندی
 کا لگا کر ڈالنے میں سنا کر سا پیرگھٹی -
 پیرگھڑا - (پیرگھڑا) (۱) - اند - ۱۱) صفت (۲) وہ گھوڑا جو دوسرے کے مکان کو پہنچاتا ہو -
 پیرلا - (پیرلا) (۱) - اند - ۱۱) صفت (۲) اُس طرف کا - سب سے آخر کا - اُس پار کا -
 پیرل طرف کا -
 پیرلے درجے کا - (۱) - اند - ۱۱) صفت (۲) اہتائی -
 پیرلے ہمرے کا - (۱) - اند - ۱۱) صفت (۲) خراب آدمی (۳) حد درجے کا -
 پیرلوک - (پیرلوک) (۱) - اند - ۱۱) صفت (۲) عالم بالا - مجتبیٰ - دوسرا جہاں - موت کے
 بعد کی دوسری دنیا -
 پیرلی - (پیرلی) (۱) - اند - ۱۱) صفت (۲) اُس طرف کی -
 پیرم - (۱) - اند - ۱۱) اصل ترین ذات - اول - پہلا - مکمل ذات (۲) - مشتوق -
 (۱) - مجتبیٰ (۲) -
 پیرم ریس - (۱) - اند - ۱۱) پیرم - مجتبیٰ - رس - شراب - شراب مجتبیٰ -
 پیرماقتا - (پیرما - مات) (۱) - اند - ۱۱) بڑی آتما - اعلیٰ روح - بالا شخصیت -
 پیرمیشد - پریم - دشمن - خدا - احکم الحاکمین -
 پیرمٹ - (Permit) (پیرمٹ) (۱) - اند - ۱۱) اجازت نامہ -
 مال درآمد کرنا یا ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے یا خرید
 فروخت کی تحریری اجازت -
 پیرمٹا - (پیرمٹا) (۱) - اند - ۱۱) ایک قسم کا پیرا جو مرینے سے مشابہ ہوتا ہے -
 پیرمٹک - (پیرمٹک - کل - نہ) (۱) - اند - ۱۱) دوسرا ٹکڑا -
 پیرمٹل - (پیرمٹل) (۱) - اند - ۱۱) کھیلوں - جھگوڑے جیٹی جونی جوار کئی یا جوار کئی
 کے دانے (۲) ایک قسم کا خوشبودار چاول -
 پیرمٹلو - (پیرمٹلو) (۱) - اند - ۱۱) ایک قسم کا آناج -
 پیرمٹو - (پیرمٹو) (۱) - اند - ۱۱) صفت (۲) بے حد خوش - مسرت -
 پیرمٹو - (پیرمٹو - ستر) (۱) - اند - ۱۱) خدا کے قہار -
 پیرمٹو - (پیرمٹو - پڑ) (۱) - اند - ۱۱) سوزاں کا مرض -
 پیرن - (پیرن - ن) (۱) - اند - ۱۱) وعدہ - تجویز - اقرار - قول (۲) عہد -

پیت - قسم (۳) جیلے کی گت (۴) (۱) - اند - ۱۱) صفت (۲) پیرا - پروین -
 سات سیلیوں کا جھکا -
 پیرنالیہ پیرنالا - (پیرنالیہ - پیرنالیہ) (۱) - اند - ۱۱) کوٹے یا بالائے خانے کی سرری نالی -
 پیرنالیہ پیرنالیہ - (۱) - اند - ۱۱) صفت (۲) شہت سے روننا -
 پیرنالی - (پیرنالی) (۱) - اند - ۱۱) صفت (۲) پیرنالیہ کی تصغیر چھوٹی دررو - چھوٹی نالی
 (۲) گھوڑے کی حق دوستی کے سبب ویرتھ کی ہڈی کے دونوں طرف
 گوشت ابھرنے سے ہڈی پر جو گڑھا رہ جاتا ہے -
 پیرنالی پیرنالیہ - (۱) - اند - ۱۱) صفت (۲) گھوڑے کی فزہی کے سبب پٹھوں اور سر پٹوں
 کے درمیان گڑھا سا پیرنالیہ (۲) گھوڑے کا فزہ اور تیار ہونا -
 پیرنام - (پیرنام) (۱) - اند - ۱۱) آداب - تسلیم - بندگی - سلام (۲) مرنے
 کی حالت -
 پیرنانا - (پیرنانا) (۱) - اند - ۱۱) ماں کا دادا - ماموں کا دادا - نانا کا باپ -
 پیرنالی - (پیرنالی) (۱) - اند - ۱۱) صفت (۲) پیرنالیہ کی بیوی - ماں کی دادی - نانا کی ماں -
 پیرنٹ - (پیرنٹ) (۱) - اند - ۱۱) صفت (۲) لیکن بہر حال - پھر بھی -
 پیرنٹو - (۱) - اند - ۱۱) لیکن - مگر -
 پیرنٹر - (Printer) (پیرنٹ - رن - ٹر) (۱) - اند - ۱۱) چھاپنے والا -
 پیرنٹنگ - (Printing) (پیرنٹ - رن - ٹنگ) (۱) - اند - ۱۱) چھاپنے
 کا عمل - چھپ کرنا -
 پیرنٹنگ پریس - (Printing Press) مطبع - چھاپہ خانہ -
 پیرنڈ - (پیرنڈ) (۱) - اند - ۱۱) اڑنے والا - پھرو - مرغ - جمع - پیرنڈگان -
 پیرنڈ آبی - وہ پیرنڈ جو پانی میں سے پھیلیاں پکڑ کر کھائے -
 پیرنڈ ہو جانا - (۱) - اند - ۱۱) صفت (۲) بہت جلدی حرکت کرنا - تیزی سے بھاگنا
 پیرنڈہ - (پیرنڈہ - رن - ڈہ) (۱) - اند - ۱۱) اڑنے والا جانور - جمع - پیرنڈگان -
 پیرنڈہ پیرنڈہ - (۱) - اند - ۱۱) صفت (۲) کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہے -
 روک روک ہے - کوئی جانے نہیں پاتا - کسی کا گز نہیں -
 پیرنس - (Prince) (پیرنس) (۱) - اند - ۱۱) شہزادہ - بادشاہ زادہ -
 پیرنس آف ویلز - (Prince of Wales) (۱) - اند - ۱۱) صفت (۲) دلی عہد انگلستان کا لقب -
 پیرنٹیل - (Principal) (پیرنٹیل) (۱) - اند - ۱۱) کالج کا
 مدرس اعلیٰ یا افسر اعلیٰ -
 پیرنی - (۱) - اند - ۱۱) صفت (۲) ٹنگی -
 پیرنیال - (پیرنیال) (۱) - اند - ۱۱) صفت (۲) ایک قسم کا پھول دار درختی پیرا - دیا -
 پیروا - (پیروا) (۱) - اند - ۱۱) صفت (۲) خواہش - رجحان -
 ضرورت (۲) خوف - وحشت - نگر - اندیشہ (۳) حاجت - عرض (۴)
 توجہ - اندیشہ - چنتا -
 پیروا - (پیروا) (۱) - اند - ۱۱) صفت (۲) چاند کی پہلی تاریخ -
 پیروا - (پیروا) (۱) - اند - ۱۱) صفت (۲) پیروا کی ہوا - باد مشرق - صبا -
 پیروار - (پیروار) (۱) - اند - ۱۱) صفت (۲) مستطین ملازمان (۳) دوست یار
 پیروار - (پیروار) (۱) - اند - ۱۱) صفت (۲) غم - غم - غم - غم - غم - غم - غم - غم -
 پیروارگنال - (۱) - اند - ۱۱) صفت (۲) اگت ہوا -

پروٹین - (Protein) (پرو-ٹین) (انگ-1-امٹ) بیضیہ۔ لحمیہ۔ حیوانی
و نباتاتی خوراک کا ایک اہم جزو۔
پروڈکشن - (Production) (پرو-ڈک-شن) (انگ-1-امٹ) [پیداوار خصوصاً ادبی۔ صنعتی و ذریعی وغیرہ۔
پروڈیوسر - (Producer) (پرو-ڈیو-سز) (انگ-1-انڈ) [پیدا کرنے والا۔ پیش کرنے والا۔
پروڈور - (پرو-ڈور) (ف-صغ) [پرورش کرنے والا (مرکبات میں استعمال ہوتا ہے جیسے بندہ پروڈر)۔
پروڈورگار - (پرو-ڈور-گار) (ف-1-انڈ) [پرورش کرنے والا۔ پالنے والا۔
خدا نے تعالیٰ۔
پروڈورگار عالم (عالمیان) - (ف-1-انڈ) [دنیا اور دنیا میں رہنے والوں کا پالنے والا۔ خدا تعالیٰ۔
پروڈورگہ - (پرو-ڈور-گہ) (ف-1-انڈ) [پالا ہوا۔ پرورش کیا ہوا (۲) بسایا ہوا۔
دیبا یا ہوا (۳) بامراد کیا ہوا۔
پروڈریش - (پرو-ڈر-ش) (ف-1-امٹ) [پالن۔ پالنا (۲) تعلیم و تربیت (۳) ہمریانی۔ عنایت (افعال کرنا۔ ہونا)۔
پروڈرندہ - (ف-صغ) [پالنے والا۔ پرورش کرنے والا (۲) سرپرست۔
پرووس - (پرو-وس) (پ-روس) (پ-روس) (پ-روس) (۱-امٹ) [ہسائیگی۔ اطراف۔ اردگرد۔
پرووسا - (پ-روسا) (۱-انڈ) [حصہ۔ بجزہ۔ خوراک (۲) کھانا کسی کے آگے رکھا جائے۔
پرووسن - (پ-روسن) (پ-روس) [پرورش میں رہنے والی عورت۔
پرووسنا - (پ-روسنا) (۱-انڈ) [ہمنوں کے آگے کھانا چھٹنا۔ میزبانی کرنا۔
پرووسیا - (پ-روسیا) (یا-۱-انڈ) [کھانا چھٹنے والا۔
پرووسیشن - (Procession) (پ-روس-یشن) (انگ-1-انڈ) [جلوس۔ جلوس کا شان و شوکت سے گزرنا۔
پرووف - (Proof) (انگ-1-انڈ) [مسودہ۔ خاکہ۔ سب سے پہلا چھپا ہوا کاغذ جو بغرض اصلاح دکھایا جاتا ہے۔ نقل۔
پروف ریڈر - (Proof Reader) [اصل مسودے کی نقل پڑھ کر درست کرنے والا۔ پروف پڑھنے والا۔
پروفیسر - (Professor) (پ-روس-سز) (۱-انگ-1-انڈ) [معلم۔ مدرس اعلیٰ۔ کالج کے لڑکوں کو پڑھانے والا استاد۔
پروفیشن - (Profession) (پ-روس-ف-شن) (انگ-1-انڈ) [پیشہ۔ کام۔
پروگرام - (Programme) (پ-روس-گ-رام) (انگ-1-انڈ) [ترتیب۔ سلسلہ۔ ڈھنگ۔ طریقہ۔ لائحہ عمل۔
پروول - (پرو-ول) (۱-انڈ) [ایک ترکاری جسے پڑل بھی کہتے ہیں۔
پروول - (Parole) (پ-روس-ول) (انگ-1-امٹ) [(۱) وہ خاص لفظ یا الفاظ جو شناخت کے لیے پہرے والے کو بتائے جاتے ہیں تاکہ کوئی شخص اُسے دھوکا نہ دے سکے (۲) قیدی کا علف نامہ یا وعدہ کردہ مقررہ وقت پر واپس آجائے گا۔

پرووال - (پرو-وال) (۱-انڈ) [پربال۔ آنکھوں کا ایک مرض۔
دیکھتے پربال۔
پرووان - (پرو-وان) (۱-انڈ) [صفت۔ و۔ ۱-انڈ) [کامیاب۔ ممکن۔ پُر۔ ۱-انڈ) [ٹھیک۔ صحیح۔ درست۔ مستحکم (۳) بادبان کا ڈنڈا۔
پرووان پڑھانا - (۱-انڈ) [پال پر س کر بڑا کرنا۔ کامیاب کرنا۔ مراد کو پہنچانا۔
پرووان پڑھنا - (۱-انڈ) [کامیاب ہونا۔ مراد کو پہنچنا۔ تکمیل کو پہنچنا۔ پُر ہونا۔
پرووانجات - (پرو-وان-جات) (ف-1-انڈ) [پروانہ کی جمع۔ پروانے۔
پر حکم نامے۔ اجازت نامے۔ کئی فرمان۔
پرووانگی - (پرو-وان-گی) (ف-1-امٹ) [اجازت منگم۔ آگیا۔
پرووانہ - (پرو-وانہ) (ف-1-انڈ) [۱) تینگا۔ ایک پر درگیر (۲) اجازت نامہ۔ حکم نامہ (تجزیری) (۳) وہ جانور جو شیر کے آگے آگے چلتا ہے (۴) (عجازاً) عاشق۔ فریفتہ۔
پرووانہ تلاشی - (۱-انڈ) [تلاشی کا وارنٹ۔
پرووانہ راہداری - (ف-1-انڈ) [دوسرے ملک میں جانے کا اجازت نامہ۔ پاسپورٹ۔
پرووانہ طلب - وہ سند جو سمن خدمت کے عوض دی جاتی ہے اور سونے کے پانی سے لکھی جاتی ہے۔
پرووانہ گرفتاری - (ف-1-انڈ) [گرفتاری کا حکم نامہ۔ وارنٹ گرفتاری۔
پرووانہ وار - پروانہ کی طرح۔
پرووانہ ہونا - عاشق ہونا۔ فریفتہ ہونا۔ جان دینا۔
پرووالا - (پرو-والا) (۱-انڈ) [طبا کی شکل کا بال بھرا منہ جو پتنگ کے سر ہانے کی طرف پیلوں کے نیچے رکھتے ہیں۔
پرووالی - (پرو-والی) (۱-انڈ) [پرورد ہوا۔ پُرب سے آنے والی ہوا۔
باد مشرق۔
پرووا یا - (پرو-وا-یا) (۱-انڈ) [کڑی کا وہ ٹکڑا جو چار پائی کے پایوں کے نیچے رکھا جاتا ہے۔
پروولیشن - (Probation) (پ-روس-بے-شن) (انگ-1-انڈ) [عارضی ملازم یا امیدوار کی اہلیت کی آزمائش۔ کام کیلئے کا زمانہ۔
پروولیشنر - (Probationer) (پ-روس-بیشن-ز) (انگ-1-انڈ) [کام کیلئے والا۔ عارضی ملازم۔
پروپرائٹر - (Proprietor) (پ-روس-پ-رائ-ٹز) (انگ-1-انڈ) [مالک۔
پروپینڈا - (Propaganda) (پ-روس-پے-گن-ڈا) (انگ-1-انڈ) [اشاعت۔ تبلیغ۔ تہسیر۔ ڈھنڈورا۔
پرووتا - (پرو-وتا) (۱-انڈ) [پوتے کا بیٹا (۲) آٹما۔ گڑ۔ ہلدی۔ پان وغیرہ جو کسی تقریب پر خدمتی کین کر دیا جاتا ہے۔
پرووتی - (پرو-وتی) (۱-انڈ) [پوتے کی بیٹی۔
پرووسٹ - (Protest) (پرو-روسٹ) (انگ-1-انڈ) [احتجاج۔ اعتراض۔
پرووسٹنٹ - (Protestant) (پرو-روسٹنٹ) (انگ-1-انڈ) [عیسائیوں کا وہ فرقہ جو پاپ کی قیادت کو نہیں مانتا۔

پرولتاریہ - (Proletary) (پ۔ رول۔ تا۔ ری) (انگ صفت)
 (۱) محنت کشوں کا کامی۔ حامی عواصیت۔
پرولتاریہ - (Proletariat) (پ۔ رول۔ تار۔ یہ) (انگ۔ ا۔ مذ)
 (۱) عوام الناس (۲) غلے اور مزید لوگ۔ طبقہ مزدور۔
پروفانا - (پ۔ رو۔ نا) (و۔ مص) (۱) سوراخ دار چیز میں ڈورا ڈالنا (۲) سونی میں تاکا ڈالنا۔
پروفونا - (ق۔ مص) پورا کرنا۔
پروفونٹ - (Pronote) (پ۔ رو۔ فونٹ) (انگ۔ ا۔ مذ) روپے کی لین دین کی یادداشت۔ رقم جو قرض لینے والا لکھ کر دیتا ہے۔
پروہینت - (پ۔ رو۔ ہینت) (س۔ ا۔ مذ) برہمن یا پنڈت جو پوجا پاٹ یا بیہ شادی اور موت کی رسوم ادا کرتا ہے۔
پروویز - (پ۔ رو۔ ویز) (ف۔ ا۔ مذ) (۱) فوج (۲) خوش نصیب (۳) خوش (۴) قیمتی (۵) نہایت اعلیٰ (۶) مہذب (۷) سخاوت (۸) پروین (۹) شان و شوکت (۱۰) خسرو تانی۔ شاہ ایران کا لقب جو ہکد شیریں کا شوہر تھا۔
پرویون - (پ۔ رو۔ وین) (ف۔ ا۔ مذ) معتد تریا۔ سات ستاروں کا بھرٹ۔ سات سیسیلوں کا بھگنا۔ بنائے نقش۔
پیرہ - (پ۔ رہ) (پ۔ رہ) (ف۔ ا۔ مذ) (۱) قطار۔ صف (۲) دامن۔ کنارہ طرف۔ پہلو (۳) چکل کا اوپر کا پاٹ (۴) دروازے یا قفل کی جھڑ (۵) کنویں کی گزاری۔
پیرہ پینی - (پ۔ ا۔ مذ) نختوں کا درمیانی پردہ۔
پیرھلا - (پ۔ رھ۔ لا) (س۔ ا۔ مذ) خوشی۔ آند۔
پیرہیز - (پ۔ ریز) (ف۔ ا۔ مذ) (۱) احتیاط۔ حذر۔ اجتناب (۲) تقویٰ۔ (۳) خوف۔ اندیشہ۔ ناجائز اور حرام چیزوں سے دوری۔
پیرہیز ٹوٹنا - (۱) عمارت پر ہیز موقوف ہونا۔ ممانعت کا دور ہونا۔
پیرہیز سب سے اچھا - (۱) ایشل پر ہیز سے بیماری میں بہت فائدہ ہوتا ہے۔ پیرہیز سے بہت سی بیماریاں دور رہتی ہیں۔
پیرہیز گار - (ف۔ صف) (۱) صالح۔ عابد (۲) بچنے والا۔ مجتنب (۳) مستحق۔ ڈرنے والا۔ ناجائز اور حرام چیزوں سے دور رہنے والا۔ بیچ پر ہیز گارل
پیرہیز گاری - (ف۔ ا۔ مذ) پیرہیز کرنا۔ احتیاط کرنا۔ بچنا۔ اجتناب کرنا۔ مستحق ہونا۔ ڈرنا۔
پیرہیزی - (و۔ صف) وہ جس سے پیرہیز کیا جائے۔ وہ جو بیمار کے موافق ہو۔
پیرٹی - (پ۔ ری) (و۔ ا۔ مذ) (۱) ایک چھوٹی چڑیا جس کی چونچ اور پاؤں لمبے ہوتے ہیں۔
پیری - (پ۔ ری) (ف۔ ا۔ مذ) (۱) اٹنے والی انسانی عورت۔ بہت حسین عورت۔
پیری ہند - (۱) مذ) (۱) عورتوں کا ایک زیور (۲) گنچ کا ایک داؤ (۳) بچوں کے پاؤں کا زیور۔
پیری پیکی - (ف۔ صف) (۱) نہایت خوب صورت۔ بہت حسین (۲) معشوق۔ محبوب۔
پیری خانہ - (ف۔ ا۔ مذ) وہ مکان جس میں حسینوں کا بگھٹا ہو۔

پیری خواں - (ف۔ ا۔ مذ) جھوٹ پریت اُتارنے والا۔ محاضرات کا عمل کرنے والا۔
پیری دار - (ف۔ ا۔ مذ) (۱) جس پر پیری کا سایہ ہو (۲) وہ کنواری لڑکی جس پر عمل کیا جائے اور وہ بے ہوش ہو کر عیب کی باتیں منائے۔
پیری رخسار - پیری رو۔ (ف۔ صف) (۱) پری چہرہ۔ شکیل۔ جمیل۔ خوبصورت حسین۔ خوب رو۔ (۲) معشوق۔ محبوب۔
پیری زاد - (ف۔ صف) (۱) پیری کی اولاد۔ پیری کی نسل سے (۲) نہایت جمیل۔ شکیل۔ حسین۔ خوبصورت (۲) معشوق۔ محبوب۔
پیری زادگان - جمع۔ پیری زادگان۔
پیری طلعت - (ف۔ صف) پیری دوش۔ خوب صورت۔ نہایت حسین۔
پیری کا ٹھکڑا - (ف۔ صف) نہایت حسین۔ بہت خوبصورت۔
پیری کا سایہ - (۱) مذ) پیری کا سایہ۔ پیری کا اثر۔
پیری دوش - (ف۔ صف) نہایت خوب صورت۔ بہت حسین۔ پیری شانلی۔
پیریوں دار - (۱) مذ) ایک قسم کا لنگڑا جس میں پریاں بنی ہوتی ہیں۔
پیریوں کا اتارا - پیریوں کا اٹھا کرنا۔ (۱) مذ) پیری خانہ۔ خوب صورتوں کا جمع۔ پیریوں کے اُترنے کا مقام۔ معشوق کی تعریف اور ان کے اٹھا ہونے کا مقام۔
پیریوں کا تخت اُتارنا - (۱) عمارت) حسینوں کا جمع کرنا۔
پیری - (پ۔ ری) (ف۔ ا۔ مذ) بھر جانا۔
پیری - (پ۔ ری) (و۔ ا۔ مذ) شہر۔ قصبہ۔
پیرے - (پ۔ رے) (س۔ ا۔ مذ) (۱) پیرا کی جمع۔ صفیں۔ قطاریں۔ جمعے۔ جماعتیں (۲) دوسرے کنارے۔ اُس جانب۔ پری طرف (۳) دور۔ بعید۔
پیرے بھٹانا - (۱) عمارت) (۱) دور بھٹانا۔ الگ بھٹانا (۲) حیر کرنا (۳) ہرا دینا۔
پیرے پیرے - (۱) الگ خطاب (۱) الگ الگ۔ دور دور (۲) الگ الگ ہنٹ دور دور۔ بلا اطلاع۔ بغیر خبر کے (۴) لاعلمی میں۔
پیرے ہنٹ - (۱) عمارت) دور جو۔
پیریت - (پ۔ ریت) (س۔ ا۔ مذ) (۱) محبت۔ پیار (۲) عشق (۳) میل جول (۴) جھوٹ۔ آسیب۔
پیریت جوڑنا - پیریت لگانا۔ (۱) عمارت) (۱) محبت کرنا۔ دوستی کرنا (۲) عشق کرنا (۳) میل جول کرنا۔
پیریت نہ جانے جات نکات - (و۔ صف) (۱) محبت میں ذات پات کی بردا نہیں ہوتی۔
پیریتیا - (پ۔ ری۔ تا) (و۔ ا۔ مذ) ایرٹن۔ پیرتی۔
پیریتیم - (پ۔ ری۔ تم) (و۔ ا۔ مذ) (۱) پیتم۔ معشوق۔ پیارا۔ دل بر (۲) خاندن۔
پیریٹ - (پ۔ ریٹ) (پ۔ ریٹ) (Parade) (پ۔ ریٹ) (پیرا اور دو۔
 دوسرا انگریزی) (و۔ ا۔ مذ) (۱) اسمی لفظ پیریت سے اردو میں پیرٹ کر لیا ہے (۱) قواعد۔ فوجی تعلیم۔ جنگی تربیت۔ لڑائی کے قاعدے (۲) قطار۔ صف۔
پیریٹ جمانا - (۱) عمارت) صف بانڈھنا۔
پیریٹہ - (ف۔ صف) اُڑا ہوا۔ غائب۔
پیریٹنٹ - (پ۔ ریٹنٹ) (President) (پ۔ ری۔ ٹنٹ) (پ۔ ری۔ ٹنٹ)

پڑھے نہ لکھے نام محمد فاضل۔ (ڈیل) جانے کچھ بھی نہیں اور قابل بننے ہیں۔
 پڑھے جن کو شیشے میں اُتارنا۔ (عمادہ) چالاک کوتاہو کرنا۔
 پڑی ہے۔ (عمادہ) دُھن ہے۔ نکر ہے (۷) باقی ہے۔
 پڑی ہوئی آواز۔ (۱۔ مٹ) وہ آواز جو گلے سے صاف نہ نکلے۔
 پڑے پڑے۔ (۱) لپٹے لپٹے (۲) بیکاری میں خراب جگہ پر رکھے ہوئے۔
 پڑے جھک مارنے دو۔ (عمادہ) بچکے دو۔ پردا نہیں ہے۔
 پڑے جھول رہے ہیں۔ (عمادہ) بھوکٹی نہیں۔
 پڑے ہونا۔ (۱۔ عمادہ) بے قدری کی حالت میں پڑے ہونا۔
 پڑیا۔ (۱۔ مٹ) بھینس کا مادہ بچتہ۔ پاڑی۔
 پڑیا۔ (پڑ۔ یا) (۱۔ مٹ) کاغذ کی پوٹلی۔ چھوٹی پڑا۔
 پڑیا کا لٹھا۔ ایک عمدہ اور باریک لٹھا۔
 پڑیاں۔ (پڑ۔ یاں) (۱۔ مٹ) (۱) پڑیا کی جج (۲) چیل لی بی کی نیاز کی شیرینی (۳) پریوں کی نیاز کی سیندر اور نمبر کی پڑیاں۔
 پڑیل۔ (پڑ۔ یل) (۱۔ مٹ) وہ شخص جو ہر وقت لیٹا رہے۔ چلنے پھرنے سے معذور۔

پڑپوٹنا۔ (پڑ۔ پوٹ۔ یا) (۱۔ مٹ) دال نک سرج دنیہ بیچنے والا پڑپوٹنا پڑ رہنا۔ (پڑ۔ رہ۔ نا) (۱۔ مٹ) لیٹ رہنا۔ سو رہنا۔
 پڑنا۔ (پڑ۔ نا) (۱۔ مٹ) (۱) ہونا جیسے واسطہ پڑنا (۲) ترخ ہونا۔ برسا جیسے پانی پڑنا (۳) گزنا۔ سینا۔ واقع ہونا (۴) درج ہونا۔ داخل ہونا۔ لکھا جانا (۵) دخل دینا۔ صاف دینا۔ بیچ بننا۔ ٹانگ اڑانا (۶) نکر ہونا۔ سوچ ہونا۔ (دھیان ہونا) (لیٹنا) صاحب فراش ہونا۔ آرام کرنا (۸) بسنا۔ رہنا۔ (۹) نوکری کرنا (۱۰) گرفتار ہونا۔ چھینا۔ روگ لگنا (۱۱) بویا جانا۔ بھگنا (۱۲) نازل ہونا۔ قیام کرنا۔ چھڑنا (۱۳) لگنا۔ پینا (۱۴) رکھنا۔ ڈھکنا۔ دینا (۱۵) بیکار ہونا۔ بے روزگار ہونا (۱۶) آنا جیسے بل پڑنا (۱۷) محتاج ہونا (۱۸) ادھلانا۔ میٹھا (۱۹) ہوش آنا جیسے جان میں جان پڑنا (۲۰) ٹھکنا۔ (۲۱) حاکم کرنا جیسے جا پڑنا۔
 پڑوا۔ (پڑ۔ وا) (۱۔ مٹ) (۱) بھینس کا زچہ (۲) قمری بیسنے کی پہلی تاریخ۔
 پڑوس۔ (پ۔ ڈوس) (۱۔ مٹ) ہمسائی۔ قرب۔ دوار۔ آس پاس۔
 پڑوسن۔ (پ۔ ڈوسن) (۱۔ مٹ) ہمسائی۔ پڑوس میں رہنے والی عورت۔
 پڑوسی۔ (پ۔ ڈوسی) (۱۔ مٹ) ہمسایہ پڑوس میں رہنے والا۔
 پڑوسی کا پڑامت چاہو۔ (۱۔ مٹ) ہمسائے کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے۔
 پڑوسی کے سینہ برسنے کا تو بوجھاڑیاں بھی آوے گی۔ (ایشل) ہمسایوں کو نادمہ ہوگا تو ہمیں بھی کچھ نہ کچھ نفع پہنچ جائے گا۔
 پڑھا۔ (پ۔ ڈھا) (۱۔ مٹ) (۱) تعلیم یافتہ۔ پڑھا لکھا۔ خواندہ۔
 پڑھا جن۔ (۱۔ مٹ) (۱) وہ جن جو علم ہونے کے باعث کسی سیانے کے قابو میں نہ آئے۔ (۲) نہایت چالاک۔ بہت تیز۔ شرور۔
 پڑھا دینا۔ (عمادہ) (۱) علم سکھا دینا۔ درس دینا (۲) ہوشیار کرنا (۳) بظن کرنا۔
 پڑھا لگتا۔ (۱) پڑھا لکھا۔ تعلیم یافتہ۔ خواندہ۔
 پڑھانا۔ (پ۔ ڈھانا) (۱۔ مٹ) (۱) تعلیم دینا۔ سکھانا۔ سبق دینا (۲) برگشتہ کرنا۔
 پڑھائی۔ (پ۔ ڈھائی) (۱۔ مٹ) (۱) تعلیم (۲) تعلیم دینے کا ڈھنگ۔
 پڑھنا۔ (پڑ۔ نا) (۱۔ مٹ) (۱) سکھنا۔ تعلیم پانا (۲) مطالعہ کرنا (۳) جادو کرنا۔ مترجم ہونا (۴) بار بار پڑنا (۵)
 پڑھنت۔ (پ۔ ڈھنت) (۱۔ مٹ) (۱) جادو۔ ٹونا۔ جہنم۔ منتر۔ گنڈہ۔ تونیز۔ عمل۔ عمارت۔
 پڑھوانا۔ (پڑھ۔ وا۔ نا) (۱۔ مٹ) (۱) تعلیم دلوانا۔
 پڑھو تو پڑھو نہیں تو بچہ خالی کرو۔ (ڈیل) کام کر دیا نوکری چھوڑ دے سست ملازم کے لیے
 پڑھی نہ تصفا کی۔ (ڈیل) جس شخص نے کبھی ناز پڑھی ہی نہیں وہ تصفا کی کرے گا۔ آدمی کے کام نہ کرنے پر بولتے ہیں۔
 پڑھیں فارسی بیچیں تیل۔ یہ دیکھو قدرت کے کھیل۔ (ایشل) شریف ہو کر ذلیل کام اختیار کرنا۔

پ۔ز

پزاوہ۔ (پ۔ زا۔ وہ) (۱۔ مٹ) (۱) اُدھ۔ بھٹی۔ بھٹا۔ جہاں اینٹیں بچتی ہیں۔
 پزاوے کا پزاوہ کھنگڑا ہو جانا۔ (عمادہ) سب کا سب خراب ہو جانا۔ ہر ایک کام بگڑ جانا۔
 پزیرا۔ (پ۔ زی۔ را) (۱۔ مٹ) (۱) قبول کرنے والا۔ قبول کیا گیا منظور قبول پزیرائی۔ (پ۔ زی۔ رای) (۱۔ مٹ) قبولیت۔ منظوری۔

پ۔ڑ

پڑمردگی۔ (پڑ۔ مُرد۔ گی) (۱۔ مٹ) (۱) افسردگی بگڑنا۔ مڑھا بٹ۔
 پڑمردہ۔ (پڑ۔ مُرد۔ ہ) (۱۔ مٹ) (۱) افسردہ۔ مایوس۔ لگایا ہوا۔ مڑھا یا ہوا۔
 پڑمردہ خاطر (دل)۔ (۱۔ مٹ) (۱) افسردہ دل۔ مایوس طبع۔ مُردہ طبیعت (۲) ریچھہ۔ مخموم۔
 پڑوہ۔ (پ۔ ڈوہ) (۱۔ مٹ) (۱) پکا ہوا۔ چختہ۔ مرکبات کے آخر میں سست ہے جیسے انصاف پڑوہ۔

پ۔س

پشتا پشت - پشہا پشت - (ن۔مٹ) باپ داماسے کئی پشتوں سے - پشہری در پشہری -
پشت بہ پشت - پشت در پشت - (ن۔امٹ) (۱) نسل در نسل (۲) ہمیشہ سے (۳) باپ داداسے -
پشت بدلوار - (ن۔مٹ) حیران - پریشان -
پشت پر ہونا - (معاورہ) حمایت پر ہونا - امداد پر ہونا -
پشت پناہ - (ن۔مٹ) (۱) ایک آدمی سے بچھ کھلاتے ہیں (۲) کھریا ترخرا - اسے کاپنجر جس سے جانوروں کے بدن کی گرد جھاتے ہیں -
پشت دکھانا - (معاورہ) لڑائی سے بھاگ جانا - پیٹھ دکھانا -
پشتا رہ - (پش۔تا۔رہ) (ن۔مٹ) (۱) بوجھ - گھسا - ڈھیر - انبار -
پشتا وا - (پش۔تا۔وا) (ن۔مٹ) (۱) چھپتا - دسترنگی - نہامت -
پشک - (پش۔نک) (ن۔مٹ) (۱) ایک کھیل (۲) دولتی -
پشک مارنا - دولتی مارنا - گرے - گھوڑے اور اونٹ کا دونوں پھیلے پاؤں اٹھا کر لات مارنا -
پشتو - (پش۔تر) (ن۔مٹ) (۱) افغانی زبان - کابل بولی -
پشتو لیا - (پش۔تول۔یا) (ن۔مٹ) (۱) ایک قسم کا باریک کپڑا -
پشتہ - (پش۔تہ) (ن۔مٹ) (۱) مٹی کا ڈھیر - ٹیلا - بند - بندھو (۲) وہ چمڑا یا کپڑا جس سے کتاب کی پشت کے پٹھے جوڑے جاتے ہیں -
پشتہ بندی - (ن۔مٹ) (۱) بند باندھنا (۲) دیوار یا کنارے کو مضبوط کرنا -
پشتی - (پش۔تی) (ن۔مٹ) (۱) مضبوطی - پائندگی (۲) مدد - سہارا -
حمایت - جانب داری (۳) تکیہ - ٹیک (۴) حفاظت -
پشتیان - (پش۔تی۔بان) (ن۔مٹ) (۱) سہارا دینے والا - ساتھی - مددگار - (۲) پتان - وہ کڑھی جو نیچے کی جانب پائندگی کے لیے کوڑھتخت - کشتی جہاز وغیرہ میں لگائی جاتی ہے -
پشتین - (امٹ) پشت کی جمع - آباؤ اجداد - پڑھیاں -
پشتینی - (پش۔تے۔تی) (ن۔مٹ) (۱) موروثی - خاندانی - قدیمی -
پشت - (س۔مٹ) مضبوط - پائند - زور آور - بلوان (۳) مقوی طاقت بخش -
پشم - (ن۔مٹ) (۱) بال - رُوں - اُون (۲) کیس (۳) جھانٹ - ٹوٹے زہار (۴) بے حقیقت - حیرت - ذلیل - رذیل (۵) بے کار -
پشم اکھاڑنا - (معاورہ) کسی قسم کا نقصان پہنچانا -
پشم اکھاڑنے سے مراد ہلکا نہیں ہو جاتا - (امٹ) بڑی تکلیف کے وقت معمولی تسکین سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا -
پشم برابر جاننا - (معاورہ) بہت تعجب رکھنا -
پشم پر مارنا - (معاورہ) (۱) نہایت تعجب جاننا (۲) پروا نہ کرنا - خاطر میں نہ لانا -
پشم کندہ نہ ہونا - (معاورہ) (۱) جھانٹ نہ اُکھڑنا (۲) کچھ نہ ہوسکنا (۳) بدلہ لینے سے مجبور ہونا -
پشم نہ سمجھنا - (معاورہ) کچھ نہ سمجھنا - خاطر میں نہ لانا -
پشک - (ن۔مٹ) (۱) مٹھائی کی ایک قسم -

پسندیدہ - (پ۔سن۔دی۔دہ) (ن۔مٹ) پسند کیا ہوا - حسبِ منشاء انتخاب کیا ہوا - چُنا ہوا - منظور کیا ہوا -
پسندیدہ رو - (ن۔مٹ) (۱) نیک چلن - خوش اخلاق (۲) خوش رفتار -
پسنگا - (پ۔سن۔گا) (پ۔سن۔گھا) (ن۔مٹ) (۱) ہڈی کا بگاڑ -
پسہارا - (پ۔سن۔ہارا) (ن۔مٹ) (۱) آٹا پینے والا -
پسہاری - (پ۔سن۔ہاری) (ن۔مٹ) (۱) آٹا پینے والی عورت -
پسکو - (پس۔سو) (ن۔مٹ) (۱) ایک پرواز زہریلا کڑا جس کے کاٹنے سے بدن میں مچلی ہوتی ہے -
پسواڑہ - (پس۔وارہ) (ن۔مٹ) (۱) پہلو کر وٹ - پاسا - پسوں کا سہلہ -
پسوانا - (پس۔وانا) (ن۔مٹ) (۱) اٹا کھانا - چور چور کرانا -
پسوانی - (پس۔وانی) (ن۔مٹ) (۱) پینے کی اُمرت -
پسوج - (پس۔سوج) (ن۔مٹ) (۱) پہل سلائی جس پر باریک سلائی کرتے ہیں - کچی سلائی -
پسوجنا - (پس۔سوج۔نا) (ن۔مٹ) (۱) مٹا سنا (۲) کچا کرنا -
پسپی - (پس۔پی) (ن۔مٹ) (۱) ایک قسم کا موٹا چاول -
پسپینا - (پس۔پسینا) (ن۔مٹ) (۱) پینا آنا - نمی آنا (۲) قائم ہونا - ترس کھانا (۳) دھیان دینا - ہرمانی کرنا (۴) مظلوم کی حرا دُسنے پر تیار ہونا -
پسپس - (پس۔پسپس) (ن۔مٹ) (۱) قدیم - آخر کار - پھلا -
پسپینا - (پس۔پسپینا) (ن۔مٹ) (۱) عرق - نمی - تری - بخارات - پانی جو سمات جسم سے باہر نکلے -
پسپینا آنا - (معاورہ) عرق آنا - نمی یا بخارات کا خارج ہونا - شرمندہ ہونا -
پسپینا پوچھنا - (معاورہ) شرمندگی مٹانا (۲) پینا شک کرنا -
پسپینا چھوٹنا - (معاورہ) کثرت سے پینا آنا - شرمانا - لاجواب ہونا -
پسپینا ہرا ہونا - (معاورہ) پینا شک ہونا - عرق سُکھنا - نمی دُور ہونا -
پسپینوں میں ڈوبنا - (معاورہ) پسپینوں میں نہانا - (معاورہ) بے انتہا پینا آنا - بکرت پینا آنا -
پسپینے پسینے ہونا - (معاورہ) (۱) عرق ہونا (۲) پسپینوں میں ڈوبنا (۳) شدید محنت یا گرمی کے باعث پینا آنا (۴) شرمندہ اور جھل ہونا -
پسپینے سے تر ہونا - (معاورہ) بہت پینا آنا -
پسپینے کی جگہ خون بہانا - (معاورہ) کسی کے لیے جان دینے سے درپن نہ کرنا -
پسپینے میں مشرا لور ہونا - (معاورہ) بہت پینا آنا -
پسپو - (پ۔سیو) (ن۔مٹ) (۱) بھاپ - بخارات (۲) پسینہ (۳) وہ پانی جو چادروں کے پک جانے کے قریب نکالا جاتا ہے -

پ۔ش

پشت - (ن۔مٹ) (۱) پیٹھ - کمر (۲) پچھاڑی (۳) ٹیک - مدد - سہارا (۴) مساوی (۵) پڑھی - نسل - خاندان - جمع - پشتہا -

پیشینہ - (پیش - ہی - نہ) - وقت - ۱ - مذ) اونی کپڑا - بالوں کا پارچہ -
 پیشک - (ف - ا - مذ) لوسے کا ایک آلہ جس سے معمار دیواروں میں سوراخ
 کرتے ہیں (۲) اونی کپڑا جس کے دونوں سروں پر ٹکڑیاں لگی ہوتی ہیں اس
 میں ایٹیں یا شی دھیزہ لکھ کر اوپر اٹھاتے ہیں (۳) ظلم جو (۴) تکلیف و مصیبت (۵)
 پیشگیاں - (پ - شنگ - گی - آں) - (ق - ا - مٹ) - ایک قسم کا جال -
 پیشو - (پ - شو) - (س - ا - مذ) - ۱) چوپایہ - ڈھور - مویشی (۲) بے وقوف -
 بے فہم - بے عقل (۳) مورکھ - بے علم -
 پیشواز - (پیش - واژ) - (ف - ا - مٹ) - سایہ - ناپختے کی پوشاک - عورتوں کی
 ایک گھیر دار پوشاک -
 پیشہ - (پیش - ش) - (ن - ا - مذ) - ۱) پتھر - ایک پر دار کپڑا (۲) بے حقیقت -
 بے اصل - حیرت (۳) کمزور - ناقصت -
 پیشی - (پیش - شی) - (ا - مٹ) - ۱) پیشہ کی تائید (۲) بچے کا پیشاب -
 پیشمان - (پ - شے - مان) - (ف - صفت) - ۱) شرمندہ - تادم - منفعل (۲)
 پھمتانے والا - انوس کرنے والا -
 پیشمانی - (پ - شے - مانی) - (ف - ا - مٹ) - شرمندگی - مذامت - انوس -

اپنا حال بیان کرنا شروع کر دیا -
 پکچا پھوڑا ہموں ہا ہے - (ا - محاورہ) بہت بھرا بیٹھا ہے - پھیڑنے کی دیر ہے
 سب حال کہہ دے گا -
 پکچا چھٹا - (ن - مذ) - ۱) پکچا روزنامہ - پختہ ہی کا حساب (۲) سالانہ حساب کی فرد -
 پکچا دینا - (ا - محاورہ) پکچا کے تیار کرنا - ستانا - تکلیف دینا -
 پکچا کرنا - (محاورہ) - ۱) مستقل کرنا - آمادہ کرنا (۲) پختہ کرنا (۳) ذہن نشین
 کرنا (۴) سبق خوب یاد کرنا -
 پکچا گانا - (ا - مذ) وہ گانا جس میں فن موسیقی کا کمال دکھایا گیا ہو -
 پکچا ہونا - (ا - محاورہ) معاطلے بوجانا - کام مضبوط بوجانا - صبر ارادہ ہونا -
 پکچے کو گر - کوٹے کو نیند کیسے آئے - (شل) - چیز سامنے ہوتی لاپچی
 شخص کو کیونکر صبر آئے -
 پیکار - (پ - کار) - (ہ - ا - مٹ) - ۱) آواز - بانگ (۲) فریاد - (دانی) (۳)
 شور و غل (۴) تلاش - جستجو (۵) اعلان - منادی (۶) بلا - طبعی (۷)
 فریقین مقدسہ یا گولان کی طبعی کی صدا -
 پیکار اٹھنا - (ا - محاورہ) - ۱) آواز بلند ہونا (۲) زور سے بول پڑنا -
 بے ارادہ بول پڑنا -

پ - ف

پلف - (ن - ا - مٹ) - بھونک - بھونک مارنا -

پ - ک

پکچا - (پک - کا) - (ہ - صفت) - ۱) پکایا ہوا - پکا ہوا (۲) تجربہ کار - کار کردہ -
 ہوشیار - جہاں دیدہ (۳) مشاق (۴) راسخ - مضبوط - پختہ - مستحکم (۵)
 پورا - بالغ - مکمل (۶) بے نقص - بے ضرر (۷) نڈر - بے خوف -
 دیدہ دلیر (۸) مستند قابل - وقیع جیسے پکا تنک (۹) آشام مکھٹ لگا ہوا جیسے
 پکا کرنا (۱۰) مستقل (۱۱) جوش دیا (۱۲) پختہ - تیار - چھنا - تلا (۱۳) قدیم - مستقل -
 موردی (۱۴) دفا دار ساتھ دینے والا (۱۵) معتم - بالجزم (۱۶) منتقش کاغذ مکوک - سکہ
 جس پر بادشاہ کی تصویر یا نام بادلوں چھے ہوں (۱۷) عمر دیدہ - بوڑھا پختہ کار (۱۸) تراشٹ
 مھاگ - چالاک (۱۹) خوب - عمدہ -
 پکچا بال - (ا - مذ) - سفید بال - وہ بال جو بڑھاپے کی وجہ سے سفید ہو گیا ہو -
 پکچا بول - (ا - صفت) - مضبوط - اقرار -
 پکچا بیان - (ا - صفت) - ۱) عمر رسیدہ - نہایت بوڑھا (۲) پختہ کار - تجربہ کار -
 پکچا پکچا یا - (ا) بے محنت - بنا بنا یا - بالکل تیار - بے تکلف - بے کوشش
 محنت (۳) تیار - مکمل -
 پکچا پن - (ا - مذ) - مضبوطی - پختگی (۲) چالاک -
 پکچا پھوڑا - (ا - صفت) - ۱) پیپ بھرا پھوڑا - تیار پھوڑا (۲) درد سے بھرا ہوا -
 دکھا - ظم زدم - رونے کو تیار -
 پکچا پھوڑا - تھیں لگی اور پھوڑا - (پیش) - بوچھے ہی مصیبت زدہ شخص نے

پیکار پڑنا - (ا - محاورہ) - ۱) شہرت ہونا (۲) تلاش ہونا -
 پیکار پیکار کر کہنا - (ا - محاورہ) - بلند آواز سے کہنا -
 پیکار دینا - (ا - محاورہ) - ۱) آواز دینا (۲) اطلاع دینا - آگاہ کرنا (۳) منادی کرنا -
 پیکار کرنا - (ا - محاورہ) - فریاد کرنا (۲) شور و غل مچانا -
 پیکار کے (کر) - (ا) کھلم کھلا - علانیہ (۲) ناراضی کے ساتھ - غصے کے
 ساتھ (۳) چلا کے (۴) اطلاع دے کر - مطلع کر کے -
 پیکار - (ق - ا - مذ) - ۱) شہرت - ناموری (۲) شور و غل -
 پیکار کرنا - (پ - کار - نا) - (ا - مٹ) - ۱) آواز دینا - بلانا (۲) چلاتا - غل مچانا -
 (۳) خبر کرنا (۴) یاد کرنا - رٹنا (۵) فریاد کرنا - مانگی -
 پیکارنا - (پ - کار - نا) - (ا - مٹ) - ۱) پختہ کرنا - کھانا تیار کرنا (۲) ٹھیک کرنا -
 درست کرنا (۳) خامی دور کرنا - کچا پن دور کرنا (۴) مضبوط کرنا - پختہ کرنا -
 (۵) گھوٹنا - رٹنا - یاد کرنا (۶) مستقل کرنا (۷) زخم یا پھوڑے کے مواد کو
 خارج کرنے کے قابل بنانا (۸) جوڑ کرنا - منسوب بنانا -
 پکچا ڈ - (پ - کا - او) - (ہ - ا - مذ) - پکچے والا - پکچنے کے قریب - گدرا یا ہوا -
 تیار کے قریب -
 پکچائی - (پ - کا - ای) - (ہ - ا - مٹ) - پکانے کی اُمرت - پکوانی -
 پکچن - (پک - پن) - (ہ - ا - مذ) - دانائی - عقلمندی - پکچگی -
 پکچر - (پک - چر) - (انگ) - (مٹ) - تصویر - سینما -
 پکچر ہاؤس - (Picture House) - تصویر خانہ - نگار خانہ
 پکچر نشانات گاہ - سینما گھر -
 پکچر - (پ - کر) - (ہ - ا - مٹ) - ۱) گرفت - قبضہ (۲) داد بخش (۳) بحث
 مباحثہ (۴) پیکار - دھونس (۵) مواخذہ - باز پرس - کتہہ چینی (۶) دلیل
 و ذریعہ (۷) گرفتاری (۸) پیکار میں پکڑنا -
 پکچر بلانا - (ا - محاورہ) گرفتار کر لینا - زبردستی بلانا -

پیکھراج - پیکھ (دیکھ) راج (د) - ۱۔ مذ (یک قسم کا زرد قیمتی پتھر)
پیکھوڑا - پیکھ (دیکھ) روڑا (د) - ۱۔ مذ (۱) جامدی یا سونے کا درق (۲) پانی کی گھری
 جس پر سونے یا چاندی کا درق لپٹا ہوا ہو۔
پیکھوا - پیکھ (دیکھ) وا (د) - ۱۔ مذ (۱) بانڈو - بانہہ (۲) پہلو - بھل - کنار۔
پیکھوڑا - پ (پکھوڑا) (د) - ۱۔ مذ (۱) کاغذ کی ہڈی (۲) کاغذ۔
پیکھرو - پ (پکھرو) (د) - ۱۔ مذ (۱) پرندہ - طاڑ (۲) تیز رو۔
پیلی - پ (پک) کی (د) - ۱۔ مٹ (۱) پختہ - مضبوط - استوار - مستحکم - پامار (۲) مستقل
 (۳) قائم (۴) معینتہ - مستقرہ (۵) کامل - پوری (۶) غیر ختم (۷) تیار۔
 بنی ہوئی مددھی ہوئی (۸) پکا کی تائینتہ۔
پیلی بات - (۱) مٹ (پیلیتین بات) - طے شدہ معاملہ - تجربہ کی بات۔
پیلی پیکانی کھانا - (۱) عاودہ (جیر عنت و شقت گزر بسر کرنا۔
پیلی پیداوار - (۱) وہ جنس جو پختہ اترے (۲) وہ نکاسی جو کاشت کاری کے
 مصارف مجرا سے کرنجی ہو۔
پیلی پیسی - (۱) لیس - پتی پکانی - پس پکا تیار کی ہوئی (۲) تجربہ کار عورت
 جہاں دیدہ اور ہوشیار عورت۔
پیلی عمر - جوان عمر۔
پیلی کر لینا - (۱) عاودہ (کسی بات کا پختہ کر لینا - اطمینان کر لینا۔
پیلی کرنا - مضبوط کرنا - پختہ دینا - کسی بات کا استحکام کرنا۔
پیلی ہونا - (۱) عاودہ (بات طے ہونا - نسبت پختہ ہونا - معاملہ پتیلی ہونا
 پختے آم کے پٹینے کا ڈر - (۱) مثل) ٹوڑھے آدمی کے سر نہ کاٹھو۔

پ۔گ

پگ - (د) - ۱۔ مذ (۱) پاؤں - قدم - پرن (۲) دستے - باگ (ق)
پگ بن گئے نہ پختہ - (۱) مثل) غیر عنت کے کوئی کام نہیں ہوتا۔
پگ بھانا - (د) عاودہ (قدم رکھنا (ق)۔
پگ ڈنڈی - (۱) مٹ (تنگ راستہ - وہ راستہ جو لوگوں کے پیدل چلنے
 سے بن جاتا ہے۔
پگیا - پگیا - (پ گ) (د) - ۱۔ مذ (۱) پھاڑی - پکھڑا - پاؤں میں باندھنے
 کی دستے - بیل کے گلے کی دستے۔
پگیا گانا - (پ گ) گانا (د) - ۱۔ مٹ (۱) تمام کھلاڑیوں کا کھیل ختم کرنا (۲) وعدہ پورا کرنا۔
پگیا گاہ - (پ گ) گاہ (د) - ۱۔ مٹ (۱) میچ - سحر - فخر - تڑکا - بھور۔
پگلاسی - (پ گ) ڈی (د) - ۱۔ مٹ (۱) سر پر باندھنے کا دوپٹہ - دستار - (۲)
 عزت - آبرو (۳) منفق - آدمی (۴) ایک قسم کا محصول - نام جائز رقم جو
 مکان یا دکان کے لیے پریستہ وقت ادا کی جائے۔
پگڑی اٹارنا - (د) عاودہ (۱) بے عزتی کرنا - آبرو بیزی کرنا (۲) گاہک کو
 ٹھکانا - فریب کرنا۔
پگڑی اٹرنا - (د) عاودہ (۱) بے عزتی ہونا - آبرو بیزی ہونا - بدنام ہونا۔
 (۲) ٹھکا جانا۔

پگڑا - (د) مٹ (۱) گنتاری - دادو گیر (۲) دودھو پ (۳) جبر سختی - ظلم۔
پگڑا کرنا (لڑنا) - (د) عاودہ (کشتی کرنا۔
پگڑا لانا - (د) عاودہ (۱) گرفتار کر لانا - قبضے میں لانا - داؤں کرنا - تاویں لانا۔
پگڑا نا - پگڑا نا (د) - (پ گڑا) - (د) - ۱۔ مذ (۱) گرفتار کرنا (۲) گرفتار کرنا
 وارنٹ نکلوانا (۲) نافذ میں نافذ دینا - سپرد کرنا۔
پگڑا نا - (پ گڑا نا) (د) مٹ (۱) قصاص - لینا (۲) گرفتار کرنا - پھانسا - قید
 کرنا (۳) نکالنا - ڈھونڈنا - تلاش کرنا - پالینا (۴) اعتراض کرنا - ٹوکنہ۔
 (۵) روکنہ - قصاص - بند کرنا (۶) شروع کرنا - برابر ہونا - برابر میں پہنچنا۔
 دوڑ میں جا پگڑنا (د) گزارنا - بسر کرنا (د) تاویں کرنا - بیچ کرنا - ایک پہلوان
 کا دوسرے کو پگڑنا (۹) گھیرنا - محصور کرنا۔
پگش - (د) - ۱۔ مذ (۱) طرف - سمت - (۲) پاکھ - پھوڑا - پندہ دن کا زمانہ
 پگھ (۳) بل - زور - طاقت - توان (۴) بازو - پگھ - پڑ۔
پگشی - (پگ ش) (د) مٹ (۱) طرف دار - حمایتی - معاون - مددگار (۲)
 بازو رکھنے والا - پڑ والا - پرند پگھ (د) بلوان - طاقت ور (د) پر لگا ہوا تیز
پگنا - (د) مٹ (۱) پختہ ہونا - کھانا تیار ہونا - کھانا بنتا (د) مکمل ہونا
 درست ہونا (۳) قابل ہونا - تجربہ کار ہونا (۴) بالغ ہونا - حد تک پہنچنا (۵)
 پیس پڑنا - مواد پختہ ہونا (۶) عمر رسیدہ ہونا - تیار ہونا (۷) چوسر
 میں گولوں کا پیل کر کامیابی حاصل کرنا (۸) طے ہونا - مستقیم ہونا - مستقر
 ہونا (۹) معاملہ طے ہونا۔
پگنک - (Picnic) - پگنک (د) - ۱۔ مٹ (گھر سے باہر کسی
 پڑھنا مقام پر تفریحی کھانا پینا۔
پگوان - (پگ) - (د) - ۱۔ مذ (۱) تلی ہوئی چیز - پکا ہوا کھانا - پوری - پوری
 مٹائی وغیرہ۔
پگوانا - (پگ) - (د) - ۱۔ مذ (۱) تیار کرنا - کھانا تیار کرنا - پختہ کرنا۔
پگوانی - (پگ) - (د) - ۱۔ مٹ (کھانا پکانے کی اجرت۔
پگوٹھا - (ق) - ۱۔ مذ (پڑ پگھ۔
پگوڑا - (پ گڑا) (د) - ۱۔ مذ (۱) مین کی گھی یا تیل میں تلی ہوئی بڑی چٹکی۔
 (۲) کوئی چیز جو گول اور چھوٹی ہوئی ہو۔
پگڑا سی ناگ - (د) - ۱۔ مٹ (سوئی سی ناگ۔
پگڑے ٹھکانا - (۱) مین کی چٹکیاں کسی روغن میں تیار کرنا (۲) بہت ٹھکانا
 شکر کرنا - بیک بندی کرنا۔
پگڑی - (پ گڑی) (د) - ۱۔ مٹ (مین کی چٹکی کی بنی ہوئی گولی چھوٹی چٹکی
 پگھ - (د) - ۱۔ مذ (۱) پاکھ - پندھوڑا (۲) بازو - پگھ (۳) طاقت - بل۔
پگھال - (پ گھال) (د) - ۱۔ مٹ (کھال کا بڑا ٹھیلہ جس میں پانی بھر کر جابوز
 پر لادتے ہیں - بڑی مشک۔
پگھال پیٹنا - پگھال پیٹو - (د) مٹ (بڑے پیٹ والا - پیٹو - زیادہ
 کھانے والا۔
پگھالی - (ق) - ۱۔ مٹ (پانی کی بڑی مشک۔
پگھالوچ - (پ گھالوچ) (د) - ۱۔ مٹ (۱) مردگ - ایک قسم کی ڈھولک
پگھالوچی - (پ گھالوچی) (د) - ۱۔ مذ (مردگ بھانے والا پگھالوچ بھانے والا

پگڑھی اٹھنا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) مقابلہ ہونا۔ ہمسری ہونا۔ آمتا سنا ہونا۔
 پگڑھی اٹھانا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) عزت اُتارنا۔ ذلیل کرنا۔ رسوا کرنا (۲) سخر کرنا۔ ہستی اُتارنا۔
 پگڑھی اُٹھنا۔ (۱۔ محاورہ) ذلیل ہونا۔ بے عزت ہونا (۲) ہستی اُتارنا۔ توہین ہونا۔
 پگڑھی بانڈھنا۔ (۱) سر فراز کرنا۔ عزت دینا (۲) جاہ نشین بنانا۔ گدی پر بٹھانا (۳) دستار بانڈھنا (۴) کامل اور مہتمی گردانا۔ فاضل اور عالم بنانا۔
 بڑے کا اُتار اور فن کا مہر تسلیم کرنا (۵) سردار بنانا۔ خلیفہ بنانا۔ افسر بنانا (۶) سر پر سہارا رکھنا۔

پگڑھی بدلنا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) پگڑھی بدل کر پھیلانی بنانا (۲) دست بنانا۔ یار بنانا
 پگڑھی دونوں ہاتھوں سے تھامی جاتی ہے۔ (۱) متقول۔ عزت پجانے کے لیے بڑی کوشش کرنی پڑتی ہے۔

پگڑھی رکھنا۔ (۱) ستر لپیٹنا (۲) عزت رکھنا۔ آبرو بچانا۔ توقیر کرنا (۳) دستار رہن رکھنا (۴) عاجزی کرنا۔ پاؤں پر پگڑھی ڈالنا۔

پگڑھی سنبھالنا۔ (۱۔ محاورہ) عزت پچھانا۔

پگڑھی کی شرم رکھنا۔ (۱۔ محاورہ) آبرو رکھنا۔

پگڑھی میں پھول رکھا گیا۔ (۱) شرم (۲) بدنام ہو گیا۔ عیب لگ گیا۔

پگڑھی والا۔ (۱) حکم۔ طیب۔ ڈاکٹر۔ وید۔ شجاع (۲) عزت والا (۳) عامر بانڈھنے والا (۴) خاندنڈو بہر۔

پگھلا۔ (۱) صفت (۲) پاگل کی تصنیف۔ مٹری۔ سودائی (۳) خنطی۔ دیوانہ۔

پگھلانا۔ پگھلانا۔ (۱) پگ۔ لا۔ نا۔ (۲) پگھ۔ لا۔ نا۔ (۳) ص۔ (۴) تپانا۔ گرم کرنا۔ کسی ٹھوس مادے کو گرم کر کے سیال بنانا (۲) گداز کرنا۔ نرم بنانا۔ گلانا (۳) ظالم کرنا (۴) مہربان بنانا (۵) توجہ دلانا۔ راضی کرنا۔

پگھلنا۔ پگھلنا۔ (۱) پ۔ کل۔ نا۔ (۲) پگھلنا۔ ٹھوس مادے کا گرمی سے سیال ہوجانا (۲) گداز ہونا۔ گلنا۔ پگھلنا۔ گلنا (۳) نرم ہونا (۴) مہربان ہونا۔

(۵) توجہ کرنا (۶) راضی ہونا۔ منظور کرنا۔

پگھڑا (Pagoda)۔ (۱) پ۔ گ۔ ڈا۔ (۲) پ۔ گ۔ ڈا۔ (۳) پ۔ گ۔ ڈا۔ (۴) پ۔ گ۔ ڈا۔ (۵) پ۔ گ۔ ڈا۔ (۶) پ۔ گ۔ ڈا۔ (۷) پ۔ گ۔ ڈا۔ (۸) پ۔ گ۔ ڈا۔ (۹) پ۔ گ۔ ڈا۔ (۱۰) پ۔ گ۔ ڈا۔

پگھیا۔ (۱) پ۔ گ۔ ڈا۔ (۲) پ۔ گ۔ ڈا۔ (۳) پ۔ گ۔ ڈا۔ (۴) پ۔ گ۔ ڈا۔ (۵) پ۔ گ۔ ڈا۔ (۶) پ۔ گ۔ ڈا۔ (۷) پ۔ گ۔ ڈا۔ (۸) پ۔ گ۔ ڈا۔ (۹) پ۔ گ۔ ڈا۔ (۱۰) پ۔ گ۔ ڈا۔

پگھیا۔ (۱) پ۔ گ۔ ڈا۔ (۲) پ۔ گ۔ ڈا۔ (۳) پ۔ گ۔ ڈا۔ (۴) پ۔ گ۔ ڈا۔ (۵) پ۔ گ۔ ڈا۔ (۶) پ۔ گ۔ ڈا۔ (۷) پ۔ گ۔ ڈا۔ (۸) پ۔ گ۔ ڈا۔ (۹) پ۔ گ۔ ڈا۔ (۱۰) پ۔ گ۔ ڈا۔

پگھیا۔ (۱) پ۔ گ۔ ڈا۔ (۲) پ۔ گ۔ ڈا۔ (۳) پ۔ گ۔ ڈا۔ (۴) پ۔ گ۔ ڈا۔ (۵) پ۔ گ۔ ڈا۔ (۶) پ۔ گ۔ ڈا۔ (۷) پ۔ گ۔ ڈا۔ (۸) پ۔ گ۔ ڈا۔ (۹) پ۔ گ۔ ڈا۔ (۱۰) پ۔ گ۔ ڈا۔

پگھیا۔ (۱) پ۔ گ۔ ڈا۔ (۲) پ۔ گ۔ ڈا۔ (۳) پ۔ گ۔ ڈا۔ (۴) پ۔ گ۔ ڈا۔ (۵) پ۔ گ۔ ڈا۔ (۶) پ۔ گ۔ ڈا۔ (۷) پ۔ گ۔ ڈا۔ (۸) پ۔ گ۔ ڈا۔ (۹) پ۔ گ۔ ڈا۔ (۱۰) پ۔ گ۔ ڈا۔

پگھیا۔ (۱) پ۔ گ۔ ڈا۔ (۲) پ۔ گ۔ ڈا۔ (۳) پ۔ گ۔ ڈا۔ (۴) پ۔ گ۔ ڈا۔ (۵) پ۔ گ۔ ڈا۔ (۶) پ۔ گ۔ ڈا۔ (۷) پ۔ گ۔ ڈا۔ (۸) پ۔ گ۔ ڈا۔ (۹) پ۔ گ۔ ڈا۔ (۱۰) پ۔ گ۔ ڈا۔

پ۔ل

پل۔ (۱۔ مذ) (۱) پلک ہچکانے کا دقت۔ سیکنڈ۔ آن۔ لمحہ۔ دم (۲) پلنا کا امر۔

(۳) ایک تولے کا سولھواں حصہ۔

پل بھر دینا۔ فوراً دیر میں۔ فوراً پلک بھینکنے۔ آنا فانا۔ بہت جلد۔

پل جانا۔ پلنا۔ (۱) ص۔ (۲) پرورش پانا (۳) گرمی یا گرم ہونا۔ پرورش پانا۔

پل کا بھروسہ نہیں۔ (۱) ص۔ (۲) پلک بھینکنے کی لمحہ بھر میں امید نہیں۔ پلک بھینکتے

نیک کا اُسر نہیں۔ موت کا کچھ ٹھیک نہیں کب آئے۔

پل کے پل مارنے میں۔ متورسی دیر میں۔ لمحہ بھر میں فوراً۔

پل کی پل۔ متورسی دیر کے لیے۔

پل۔ (۱) مذ (۲) وہ تصویر جو دریا مندی نالے، سڑک یا ریلوے لائن

پلا۔ (۱) ل۔ لا۔ (۲) مذ (۱) دامن۔ آچھل۔ کنارہ (۲) حمایت۔ اعانت۔ مدد۔
 سہارا۔ کمک (۳) پھیلا (۴) پھیلنا۔ تراش (۵) پٹ۔ کاڑ (۶) لپ۔
 کوئی۔ بیل (۷) فرق۔ فاصلہ۔ تفاوت۔

پلا بھاری ہونا۔ (۱) محاورہ (۲) ایک پلے کا وزن دوسرے سے زیادہ ہونا۔

(۲) زیادہ دُور ہونا۔ بہت فاصلہ ہونا (۳) بکثرت حمایتی یا مددگار ہونا۔

طاقت و زیادہ دولت مند ہونا (۴) زیادہ کنبہ ہونا (۵) دوپٹے یا شال بخیرہ

کانکرہ قیمتی ہونا۔ آچھل زیادہ کا مدار ہونا (کنکرہ) بہت گہنگرا ہونا۔

پلا باک ہو جانا۔ (۱) محاورہ (۲) فیصلہ ہو جانا (۳) فرض ادا ہو جانا۔

پلا تیکھ لینا۔ (۱) محاورہ (۲) آسرا لینا۔ دامن پکھ لینا۔

پلا جھکنا۔ (۱) محاورہ (۲) وزنی ہونا۔ ظلام ہونا۔

پلا چھڑانا۔ (۱) محاورہ (۲) بے باقی کرنا۔ ادا کرنا۔ ترک تعلق کرنا۔ جدا ہونا

(۲) پیچھا پھڑانا۔ طلاق حاصل کرنا (۳) روتی ہوئی عورت کو رونے سے باز رکھنا (۴) کنارا آنا لینا۔ آچھل اُٹھیر لینا۔

پلا چھوڑنا۔ (۱) محاورہ (۲) پیچھا چھوڑنا۔ علیحدہ ہونا۔

پلا لینا۔ (۱) محاورہ (۲) آنکھ پر لپکا کر رکھنا۔ منہ ڈھکنا (۲) دامن پکھلانا۔

(۳) پیچھے پڑنا۔ ستر ہونا (۴) امید رکھنا۔ سہارا لینا (۵) دوشل مول لینا۔

(۶) پھلانا۔ بیزار کرنا۔

پلے بانڈھنا۔ (۱) محاورہ (۲) حوالے کرنا۔ سپرد کرنا۔ ذمے کرنا۔ قبضے میں

دینا (۲) نکاح میں دینا (۳) شادی کرنا (۴) گانٹھ میں بانڈھنا (۵) یاد رکھنا (۶) دامن یا دوپٹے میں گرہ دینا (۷) الزام لگانا۔ ستر چھوینا۔

پلے بندھنا۔ (۱) محاورہ (۲) لگے پڑنا (۳) بیابا جانا۔

پلے ٹکا نہیں۔ (۱) محاورہ (۲) پاس کچھ نہیں۔ عزیز اور مجلس ہے۔

پلے پڑنا۔ (۱) محاورہ (۲) ذمے ہونا۔ ستر چھینا۔ واسطہ پڑنا (۲) قبضے میں آنا۔

(۳) وراثت میں آنا (۴) نکاح میں آنا (۵) حصے میں آنا (۶) لاکھ لگنا۔

پلے چھاڑ کر کھڑا ہو جانا۔ (۱) محاورہ (۲) سب کچھ خرچ کر دینا (۲) بے تعلق

ہو جانا (۳) سب کچھ بانٹ دینا۔ الگ ہو جانا۔

پلے دار۔ حال۔ نقلی۔ مزدور۔ بوجھ اٹھانے والا۔

پلے سے بانڈھنا۔ (۱) بیابہ دینا کسی سے عقد کر دینا (۲) دامن سے بانڈھنا

پلے کپڑے میں دھنسنے سے ہیں۔ (۱) محاورہ (۲) پھیلنے میں گرفتار ہے۔

پلے ہونا۔ گانٹھ میں ہونا۔ گرہ میں ہونا۔ پاس ہونا۔ مال و زر ہونا۔

پلے نہ پڑنا۔ (۱) محاورہ (۲) کچھ حصول نہ ہونا۔ بات سمجھ میں نہ آنا۔

پلا۔ (۱) پ۔ ل۔ (۲) ص۔ (۳) مذ (۱) پھیلنا۔ کھینچنا (۲) پرورش کیا ہوا۔

(۳) پٹی کا اسم کبیر - بڑا چھو جس سے تیل یا گھی نکالتے ہیں۔
 پٹلا - (پہل - لا) (پ - لا) (۱) کتے کا چھوٹا بچہ (۲) نطفہ - تخم جیسے حرام کا پتلا۔
 پیلاس - (پ - لاس) (۱) مذ [ماٹ - موٹا پٹرا۔
 پیلاس - (پ - لاس) (۱) مذ [دھاک کا درخت (۲) زہور - ایک قسم کا اوزار۔
 پیلاس پاپڑا - (۱) مذ [دھاک کا بیج جو دواؤں میں پڑتا ہے۔
 پیلاستر - (Plaster) (۱) لگ - (۲) مذ [کامورہ - استرکاری (۳) لیب - بنیاد۔
 پیلاستر اڑا دینا - (۱) محاورہ [مارتے مارتے کھال اڑھیر دینا - بہت مارنا۔
 پیلاستا - (۱) مص [جو تیار ہوجانے کے بعد اس کو تراش کر ٹھیک کرنا۔
 پیلاٹا - (۱) لگ - (۲) مذ [صحن (۱) کوئی سیال مادہ پینے کو دینا - نوش کرنا۔ پانی
 دینا (۲) داخل کرنا - جذب کرنا یا جسم کے اندر پہنچانا کسی چیز میں کوئی
 مادہ دوڑانا - مارنا جیسے تیر یا گولی پلانا - ہدف بنانا - نشانہ بنانا (۳)
 ذہن نشین کرنا (۴) تیل نکوانا (۵) عرق نکوانا - جیسے کولہو میں
 سرسوں پلانا۔
 پلاؤ - ماتم - ماتم کرنے والا - (رق) -
 پلاؤ - (پ - ل) (۱) مذ [گوشٹ مسالہ اور گھی میں پکا ہوا چاول۔
 پلاؤ کی رکابی کہیں نہیں گئی - (۱) مش [کچھ کی بنیں - عیش میں کمی نہیں۔
 پیلانی - (پ - لا) (۱) مص [۱] آٹا - دایہ - انگہ - آٹا - رضاعی مال (۲)
 دودھ پلانے والی ٹوکمانی۔
 پیلانی وڈ - (Plywood) (پ - لا) (۱) وڈ [لگ - (۱) مص [۱] وہ
 بہت دار کڑی جو پتے تختوں کو چپکا کر بنائی جائے۔
 پیل پڑنا - (پہل - پڑنا) (۱) مذ [آر - مص [۱] دفتہ حملہ کرنا - بڈ بول دینا (۲) ایک
 دم مارنے لگنا (۳) دھکیلنا (۴) جگ پڑنا - کام میں بے حس
 مصروف ہونا۔
 پیپلا - (پہل - پ - لا) (۱) مص [۱] نرم - ملائم - چمکیا۔
 پیپلا - (پہل - پ - لا) (۱) مذ [بولا - کھوکھلا - بخت - اندر سے خالی۔
 پیپلاٹا - (پہل - پ - لا) (۱) مص [۱] پیلہا کرنا - دبا کر نرم کرنا - ملائم کرنا چمکیا نا۔
 پیپلاٹا - (پہل - پ - لا) (۱) مص [۱] پورنا - پوروں کی طرح کھانا - چوستا
 یا پچڑنا - دانت لگائے بیترس چوستا (۲) ڈرنا۔
 پیپلا ہسٹ - (پہل - پ - لا) (۱) مص [۱] نرمی - ملائمی - چمکیا پن۔
 پیپلی - (پہل - پ - لی) (۱) مص [۱] نرم - چمکی۔
 پیپلی ہیکری - (۱) مص [۱] فرج - انعام نہانی - عورت کی شرمگاہ۔
 پیپلی - (پہل - پ - لی) (۱) مص [۱] پوروں کے بل ٹانگیں اوپر نیچے رکھ کر
 بیٹھے کا طریقہ۔
 پیکٹ - (پ - لگ) (۱) مذ [۱] گھاڑ - گردش - چکر۔
 پیکٹ پڑنا - (۱) محاورہ [ایک طرف سے دوسری طرف ہوجانا (۲) کسی
 پر غصہ کا اظہار کرنا - جاتے جاتے لوٹ پڑنا۔
 پیکٹ جانا - (۱) محاورہ [برگشتہ ہوجانا - دو گوں ہوجانا (۲) راہ سے پھر جانا
 (۳) لگ جانا (۴) بات بدلنا۔
 پیکٹ کرنے دیکھنا - (۱) محاورہ [متوجہ نہ ہونا - خبر نہ لینا۔
 پیکٹا - (پہل - لگ) (۱) مذ [۱] بدلہ - صلہ - انتقام (۲) کھرچنی - روٹی وغیرہ پٹنے

لا کر (۳) انقلاب - چکر (۴) پلٹنا کا ماضی۔
 پلٹا دینا - اُلٹ کھٹ کرنا - ایک طرف سے دوسری طرف پلٹنا - ہر ادینا۔
 پلٹس - (Poultice) (پہل - لگ) (۱) لگ - (۱) مص [لیپ - بنیاد - پکڑی
 پھوڑا پکانے کی دوا جو پکا کر لگائی جائے۔
 پلٹن - (Platoon) سے بنا ہوا (پہل - لگ) [آر - (۱) مص [پیادہ فوج کا دستہ۔
 پلٹنا - (پ - لگ) (۱) مذ [صحن (۱) پٹ کھانا - اُلٹنا - پھرنا - واپس ہونا (۲)
 باز آنا - بے دغا نی کرنا - ذہن بدلنا (۳) دیکھنے - اُلٹنا
 پلٹی - (پہل - لگ) (۱) مص [۱] پٹ کی تائینٹ - تگڑا ہادی (۲) واپس ہونی - کوئی۔
 پلٹیاں کھانا - (۱) لگ کھانا (۲) تگڑا بایاں کھانا۔
 پکڑا - (پہل - لگ) (۱) مذ [۱] پٹ - ترازو کا وہ حصہ جس پر سامان یا باٹ رکھا
 جائے (۲) کتارہ گرٹ - میل - پتلا۔
 پلستر - (Plaster) (پ - لگ) (۱) مذ [انگریزی لفظ پلاسٹر
 کی اردو - دیکھئے پلاسٹر۔
 پلستر بگاڑنا - (۱) لیب میں خرابی کرنا یا بناؤں میں نقص ڈالنا - مرہم میں عیب
 پیدا کر دینا (۲) بچرا کھال اڑھیر دینا - بہت مارنا (۳) بھکاری کو کھار ڈالنا۔
 پلگ - (پ - لگ) (۱) مص [۱] شہ - پگی - شراگان - آنکھ کے بال (۲)
 آن - لحظہ - دقیقہ - تائینہ - لمحہ - دم - آنکھ کی چھیک۔
 پلگ پلٹیا - (۱) چنڈھا - بار بار آنکھ جھپکانے والا۔
 پلگ تھپکنا - (۱) محاورہ [پگ مارنا - آنکھ چھپکانا - آنکھ لگنا - سینڈنا - آنکھ بند ہونا
 پلگ تھپکنے میں (مارنے میں) - ذرا سی دیر میں - فوراً - بہت جلد۔
 پلگ ڈریا - (محاورہ) سیر - چم - فیاض - دانا - کریم - سنی - دریا دل۔
 پلگ سے پلگ نہ لگنا - (۱) محاورہ [سینڈنا آنا - جاگتے رہنا۔
 پلگ لگ جانا - (۱) محاورہ [تھوڑی دیر کے لیے سوچنا - چھپک آجانا۔
 پلگ مارنا - (۱) محاورہ [آنکھ چھپکانا - آنکھ مارنا - آنکھ سے اشارہ کرنا۔
 پلگ نواز - (۱) دم کے دم میں مال دار بنانے والا (۲) تھوڑی سی کارگزاری
 پر بہت کچھ دینے والا - خدا کی سعادت۔
 پلگ نہ پھینچنا - (۱) محاورہ [۱] رحم نہ آنا (۲) آنسو نہ آنا - نام کو بھی نہ روننا۔
 پلگ نہ چھینکنا - (۱) محاورہ [سینڈنا آنا - بے چینی ہونا۔
 پلگوں سے اٹھانا - (۱) محاورہ [کسی کی دی ہوئی چیز کو عزت و احترام سے اٹھانا
 پلگوں سے زمین جھاڑنا - (۱) محاورہ [۱] بہت عزت کرنا (۲) بے حد
 اعانت کرنا (۳) بے انتہا محبت رکھنا۔
 پلگوں سے نمک چھیننا - (۱) محاورہ [۱] پلگوں سے نمک اٹھانا (۲) از حد
 مشکل کام کرنا۔
 پلگیں سڑھنا - (۱) محاورہ [سخت رنج اور سختی کو ضبط کرنا۔
 پلگیں کترنا - (۱) محاورہ [خوبصورت بچوں کو نظر بد سے بچانے کے لیے ان کی
 پلگیں کتر کر چھوٹی کرنا۔
 پلکا - (پہل - لگ) (۱) مذ [۱] میں کو تیر - دور لگا کو تیر۔
 پلمبر - (Plumber) (پ - لم - بر) (۱) لگ - (۱) مص [۱] سیسہ گر (۲) کاریگر
 جو نلوں وغیرہ کی مرمت کرتا ہے۔ نل ساز۔
 پلٹا - (پہل - لگ) (۱) مص [۱] پلٹا جانا - دبا یا جانا - مسلا جانا (۲) لگ کر عرق نکلنا

پنالا۔ (پت۔ نا۔ لا۔) ۱۔ مذ (۱) پرناک (۲) نالی (۳) بدرزو (۴) ٹوٹی۔ فوآدہ۔
 (۵) دہ ٹنگن جو موٹاپے کے باعث جانوروں کی پیٹھ پر پڑ جائے۔
 پنہا۔ (پ۔ ناہ۔) ۱۔ صفت (۲) عاقبت۔ مخالفت۔ نگرانی (۳) عاقبت

سہارا۔ اعلیٰ (۳) سایہ۔ جمع پنالوں۔
 پنہا بگنڈا۔ (پت۔ بگنڈا) صفت (۲) خدا کی پنہا۔ اللہ کی امان۔
 پنہا دینا۔ (پت۔ اضعف) دشمنوں سے بچانا۔ سہارا دینا۔
 پنہا گاہ۔ (پت۔ ۱۔ صفت) امن کا مقام۔ عاقبت کی جگہ۔ مامن۔ ملجا۔
 پنہا گسر۔ (پت۔ صفت) مخالفت میں آنے والا۔ پنہا میں آنے والا۔ ہماجر۔
 پنہا مانگنا۔ (۱) امن و عاقبت طلب کرنا (۲) دُور رہنا (۳) فریاد کرنا۔
 دار چاہنا۔

پنہ۔ (پن۔ پت۔) ۱۔ صفت (۲) کان میں روئی ڈالے ہوئے (۳) غافل بنے بغیر
 پنہ بگوش۔ (پت۔ صفت) (۱) کان میں روئی ڈالے ہوئے (۲) غافل بنے بغیر
 (۳) توجہ نہ کرنے والا (۴) بنا ہوا۔ بہرہ۔
 پنہ دانہ۔ (پت۔ مذ) بوزلا۔ کپاس کا بیج۔
 پنہ دوز۔ (پت۔ صفت) گانٹھے والا۔ پوند لگانے والا۔ پڑنے پڑنے سے لینے والا۔
 پنہ دہن۔ (پت۔ صفت) (۱) خاموش۔ چپ (۲) کم گو۔ کم سخن۔

پنہی۔ (پن۔ ہی۔) ۱۔ صفت (۲) کپڑا جس میں روئی بھری ہوئی ہو۔ روئی دار
 پنہی راؤٹی۔ (۱)۔ صفت (۲) روئی کا تیرہ۔ روئی کا مکان (۳) سرد خانہ۔
 پنہی۔ (پن۔ ہی۔) ۱۔ صفت (۲) کپڑا جس میں روئی بھری ہوئی ہو۔ روئی دار
 پنہی۔ (پن۔ ہی۔) ۱۔ صفت (۲) کپڑا جس میں روئی بھری ہوئی ہو۔ روئی دار
 پنہی۔ (پن۔ ہی۔) ۱۔ صفت (۲) کپڑا جس میں روئی بھری ہوئی ہو۔ روئی دار
 پنہی۔ (پن۔ ہی۔) ۱۔ صفت (۲) کپڑا جس میں روئی بھری ہوئی ہو۔ روئی دار

پنہی۔ (پن۔ ہی۔) ۱۔ صفت (۲) کپڑا جس میں روئی بھری ہوئی ہو۔ روئی دار
 پنہی۔ (پن۔ ہی۔) ۱۔ صفت (۲) کپڑا جس میں روئی بھری ہوئی ہو۔ روئی دار
 پنہی۔ (پن۔ ہی۔) ۱۔ صفت (۲) کپڑا جس میں روئی بھری ہوئی ہو۔ روئی دار
 پنہی۔ (پن۔ ہی۔) ۱۔ صفت (۲) کپڑا جس میں روئی بھری ہوئی ہو۔ روئی دار
 پنہی۔ (پن۔ ہی۔) ۱۔ صفت (۲) کپڑا جس میں روئی بھری ہوئی ہو۔ روئی دار

پنہی۔ (پن۔ ہی۔) ۱۔ صفت (۲) کپڑا جس میں روئی بھری ہوئی ہو۔ روئی دار
 پنہی۔ (پن۔ ہی۔) ۱۔ صفت (۲) کپڑا جس میں روئی بھری ہوئی ہو۔ روئی دار
 پنہی۔ (پن۔ ہی۔) ۱۔ صفت (۲) کپڑا جس میں روئی بھری ہوئی ہو۔ روئی دار
 پنہی۔ (پن۔ ہی۔) ۱۔ صفت (۲) کپڑا جس میں روئی بھری ہوئی ہو۔ روئی دار
 پنہی۔ (پن۔ ہی۔) ۱۔ صفت (۲) کپڑا جس میں روئی بھری ہوئی ہو۔ روئی دار

پنہی۔ (پن۔ ہی۔) ۱۔ صفت (۲) کپڑا جس میں روئی بھری ہوئی ہو۔ روئی دار
 پنہی۔ (پن۔ ہی۔) ۱۔ صفت (۲) کپڑا جس میں روئی بھری ہوئی ہو۔ روئی دار
 پنہی۔ (پن۔ ہی۔) ۱۔ صفت (۲) کپڑا جس میں روئی بھری ہوئی ہو۔ روئی دار
 پنہی۔ (پن۔ ہی۔) ۱۔ صفت (۲) کپڑا جس میں روئی بھری ہوئی ہو۔ روئی دار
 پنہی۔ (پن۔ ہی۔) ۱۔ صفت (۲) کپڑا جس میں روئی بھری ہوئی ہو۔ روئی دار

پن گہول۔ (پن۔ گہول۔) ۱۔ صفت (۲) ایک قسم کا لالچ دار اور مریض
 گندم۔ گھٹیا گندم۔

پ۔ ن

پن۔ (۱) مصدری علامت جیسے پاپن۔ اُتوپن و میزہ۔ بعض اوقات سن و سال
 اور درجے کے موقع پر لڑتے ہیں جیسے پچن۔ لڑا پچن۔ کہیں نسبت کے موقع پر
 مستعمل ہوتا ہے جیسے پندرن۔ پچن (۲) پانی کا مختلف۔ پان کا مختلف۔ پانچ کا مختلف
 پن بٹا پن ڈبا۔ (۱)۔ مذ (۲) پان رکھنے کا ڈبہ۔ خاصداں۔ پان دان۔
 پن بھتا۔ (۱)۔ مذ (۲) پانی میں پکے ہوئے چاول۔ پتلے پکے ہوئے چاول۔
 پن بھرا۔ (۱)۔ مذ (۲) آبِ حرا (۳) ستر۔ پانی بھرنے والا
 پن چکی۔ پانی کی چکی۔ پانی سے چلنے والی چکی۔
 پن چور۔ (۱) پانی پھرانے والا (۲) ایک کھلونا جس میں پانی بھرا ہوتا ہے،
 لیکن جب اس کا مٹہ بند کر لیتے ہیں۔ تو پینڈے سے پانی ٹپکنا بند ہو
 جاتا ہے پھر کھولنے پر پھٹنے لگتا ہے (۳) بہت زیادہ پیشاب کرنے
 والا۔ متور۔

پن ڈبا۔ (۱)۔ مذ (۲) ایک آبی جانور سُرگالی (۳) ڈبکی لگانے والا۔ غوا۔
 پن ڈبکی۔ (۱)۔ صفت (۲) پانی کا ایک پرند (۳) غوطہ خور۔
 پنشال۔ پنسالہ۔ (۱)۔ صفت (۲) سکین۔ پانی کی گولائی ناپنے کا پیمانہ۔ پانی
 کی پیمائش کا آلہ (۳) ہموار۔ برابر۔ چورس۔ سطح (۴) سبیل۔ پیاد۔
 پنسال نوں۔ (۱)۔ صفت (۲) ہنر کی پنسال پر پانی کی کمی بیشی کا
 سبب رکھنے والا۔

پن سیری۔ (۱)۔ صفت (۲) پانچ سیر کا باٹ۔ پانچ سیر کا وزن۔
 پن کال۔ پنیا کال۔ (۱)۔ صفت (۲) پانی کا نقطہ خشک سال۔ بارش کی کثرت
 سے فصل کا مارا جانا۔
 پن کپڑا۔ (۱)۔ مذ (۲) پانچ کا بھیگا ہوا کپڑا۔
 پن کٹی۔ (۱)۔ صفت (۲) پانچ کا پانچ۔ سالوں سمیت کھل گیا ہوا پان۔
 پن کوا۔ (۱)۔ صفت (۲) سیاہ رنگ کا پرند جو پانی میں ڈوب کر پھیل پکڑتا ہے۔
 پن گھٹ۔ (۱)۔ صفت (۲) پانی بھرنے کی جگہ۔ ڈھوڑوں کے پانی پینے کا
 مقام (۳) گھاٹ۔

پن۔ (Pen) (۱)۔ مذ (۲) قلم۔
 پن۔ (Pin) (۱)۔ صفت (۲) گھڑی دار سوئی۔
 پن۔ (۱)۔ صفت (۲) خیرات۔ صدقہ۔ دان۔ حطا (۳) کار خیر۔ نیک کام۔
 پن۔ (۱)۔ صفت (۲) دزد۔ سبز رنگ کا مٹی جی پتھر (۳) آم یا الی کا گارٹھا
 شربت (۴) دوقی پتھر۔ صفت (۵) سونے کا دوق۔
 پن۔ (پت۔ نا۔) ۱۔ صفت (۲) کپڑے کا عرض۔ چوڑائی۔ پائٹ۔
 پن۔ (پت۔ نا۔) ۱۔ صفت (۲) بعض الفاظ کے آخر میں اگر مصدر یا سن و سال کے معنی
 پتا۔ پتا۔ (پن۔ نا۔) ۱۔ صفت (۲) روئی کو دھنا۔ صاف کرنا۔

پنچ شبہ۔ (ن- مذ) بھڑات۔

پنچ عیب۔ (ن- صفت) ان پانچ عیبوں والا گھوڑا۔ بسترہ۔ کمری۔ گہنہ۔ ٹنگ۔ منہ زود۔ شب کورہ۔

پنچ عیب شرعی۔ (ن- مذ) چوری۔ حرام کاری۔ شراب خوری۔ چرائنا۔ جھوٹ بولنا۔

پنچ گکے۔ (پ- مذ) کتوں کے پانچ مذہبی نشان جو ہوت ک سے شروع ہوتے ہیں۔ (۱) کڑا (۲) کیس (۳) کریان (۴) کلگا (۵) کچھا۔

پنچ کلیان۔ (ن- مذ) وہ گھوڑا یا مویشی جس کے چاروں پاؤں اور ماتھا سینہ ہو۔ اسے مبارک خیال کیا جاتا ہے۔

پنچگانہ۔ (ن- صفت) پانچوں وقت کی نماز۔

پنچ گوشہ۔ (ن- صفت) پانچ کونے والا۔ پانچ کنارے والا۔

پنچ ند۔ (ن- مذ) پانچ دریاؤں والا۔ پاکستان کا وہ مقام جہاں پانچ دریا ملتے ہیں (پنجاب)۔

پنچ نوبت۔ (ن- صفت) پانچ وقت کی نوبت جو بادشاہوں اور امیروں کے عمل پر بجائی جاتی تھی۔

پنچارا۔ (ن- مذ) روٹی دھکنے والا۔

پنچاہ۔ (پن- صفت) پانچ۔

پنچہ۔ (پن- صفت) پانچ۔

پنچہ۔ (پن- صفت) پانچ۔

پنچہ۔ (پن- صفت) پانچ۔

پنچہ۔ (پن- صفت) پانچ۔

پنچہ۔ (پن- صفت) پانچ۔

پنچہ۔ (پن- صفت) پانچ۔

پنچہ۔ (پن- صفت) پانچ۔

پنچہ۔ (پن- صفت) پانچ۔

پنچہ۔ (پن- صفت) پانچ۔

پنچہ۔ (پن- صفت) پانچ۔

پنچہ۔ (پن- صفت) پانچ۔

پنچہ مرہم۔ (ن- مذ) ایک گھاس جس کی بابت مشہور ہے کہ حضرت مرہم نے حضرت عیسیٰ کے بچنے کے وقت پنچہ مارا تھا اور اس کی شکل تبھی کی سی ہو گئی۔

پنچہ نگارین۔ (ن- صفت) مشرق کا لائق۔ سجا ہوا لائق۔ خوبصورت لائق۔ پنچہ نما۔ (ن- صفت) تبھی کی شکل کا۔

پنچوں کے بل چیلنا۔ (ن- صفت) (۱) ایڑیوں کو اوڈ پنا کر کے انگلیوں پر چیلنا۔ (۲) عزور کرنا۔

پنچے (جھانا) گاڑنا۔ (ن- صفت) قابض ہو جانا۔ جم کر بیٹھ جانا۔ پاؤں جھانا۔

پنچے جھاڑ کر پیچھے پڑ جانا (پٹینا)۔ (ن- صفت) سر ہو جانا۔ پیچھے لگ جانا۔

پنچے تنگ کرنا۔ امر کرنا۔ اہل کھانا۔ کسی کام میں مستعدی سے لگ جانا۔

پنچے سے چھوٹنا۔ (ن- صفت) (۱) عمارت حاصل کرنا۔ (۲) بٹیاں جھلانے کا آد۔ تاش کے پانچ نشانوں والا۔

پنچیرا۔ (پن- صفت) (۱) برتن مابینے والا۔ تلی گر۔ برتن میں جوڑ لگانے والا۔

پنچیری۔ (پن- صفت) (۱) پانچ چیزوں مثلاً سوچی۔ لگی۔ سوٹھ۔ گوند۔ بیروہ سے مرکب خشک بھر بھرا علوہ (۲) گوند کھانے جو زچہ کو کھلانے جاتے ہیں۔

پنچ۔ (ن- مذ) (۱) پانچ کا محقق (۲) پنچایت کرنے والے۔ ثالث۔ باہم فیصلہ کرانے والے۔ برادری کا چودھری (۳) بچر لیا۔ دلال۔

پنچ پائر۔ (۱) پانچ برتن جو پوچا کرنے میں کام آتے ہیں (۲) پانچ قسم کے پھول پتے وغیرہ جو پوچا کے کام میں لائے جاتے ہیں (۳) پانچ دھاتوں سے بنا ہوا برتن جو پوچا میں برتتے ہیں (۴) پانچ دھاتوں سے بنی ہوئی انگوٹھی۔

پنچ شتر۔ (ن- مذ) جانوروں کے قصوں کی مشہور کتاب جو سنسکرت سے فارسی میں اوزار ہیبلی کے نام سے ترجمہ ہوئی۔

پنچ سلطانی۔ (ن- مذ) بادشاہ کی طرف سے مقرر کیا ہوا ثالث۔

پنچ فیصلہ۔ پنچوں کا فیصلہ۔ پنچایت کا طے شدہ معاملہ۔ برادری کا حکم۔

پنچ کہیں ملی تو ملی ہی سہی۔ (دش) جو سب کی رائے سے اتفاق کرنا چاہتا ہے۔

پنچ مل خدا، خدا مل پنچ۔ (دش) پنچوں کا فیصلہ خدا کا فیصلہ ہے۔

پنچوں کا ہیکل۔ حقہ۔ قلیان۔

پنچوں کا کہا سرائی کھول پیر کر پر نالہ ہمیں سبے گا۔ (دش) اس شخص کی نسبت کہتے ہیں جسے لوگ کہتا ہی سمجھائیں، لیکن وہ اپنی ضد نہ چھوڑے۔

پنچوں مل کیجیے کاج، ہارے جیتے آئے نہ لاج۔ (دش) ایسی پنچوں کی صلاح سے کوئی کام کرنا ہارنے اور جیتنے میں شرمندہ نہیں کرانا۔

پنچ۔ (ن- مذ) (۱) پھوٹے قد کا موٹا آدمی۔ ٹھنگنا اور کڑا آدمی۔ سزا۔

پنچا۔ (ن- مذ) وہ دتے والی کڑی جس میں پانچ شاخیں ہوتی ہیں جس سے

کسان کئی ہوئی فضل کو ہلاتے ہیں اور بھوسے سے دانے الگ کرتے ہیں۔
 پنچال - (پن۔ چال) (دق۔ صفت) ہوشیار۔ مکار۔
 پنچامرت - (پن۔ چا۔ مرت) (دس۔ ۱۔ مذ) پانچ چیزوں یعنی دودھ۔ دہی۔ چینی۔ گھی اور شند سے بنا ہوا شربت جس سے دوتا کے بُت کو ہنلاتے ہیں۔
 پنچانا - (پن۔ چا۔ نا) (دق۔ مص) اُگانا۔ پیدا کرنا۔
 پنچایت - (پن۔ چا۔ یت) (دہ۔ ۱۔ مشت) (۱) بچوں کی کمیٹی۔ بھائی بندوں کی مجلس (۲) نزاع رفع کرنے کا جلسہ (۳) صلاح مشورہ۔ ثالثی (۴) شور و غلج جوہ۔ مجمعِ گردہ۔
 پنچایت جوڑنا - (۱) بچوں کو بلانا۔ پنچایت کو اکٹھا کرنا (۲) فیصلہ کرانے کو برادری جمع کرنا (۳) دعوت کرنا (۴) اکٹھے ہونا (۵) ہلا چانا۔ جوم کرنا۔
 پنچایت خانگی - (دہ۔ ۱۔ مشت) گھر کی پنچایت جس میں لوگ راج کے طور پر اپنے جھگڑے فیصلہ کر دیتے ہیں۔
 پنچایت راج - (دہ۔ ۱۔ مذ) عوام کے چٹے ہوئے نمائندوں کی حکومت۔
 پنچایت سرکاری - (دہ۔ ۱۔ مشت) سرکاری مقرر کی ہوئی پنچایت۔
 پنچایت نامہ - (دہ۔ ۱۔ مذ) بچوں کا کیا ہوا تحریری فیصلہ۔ پنچایت کا لکھا ہوا تصنیف۔
 پنچائیتی - (پن۔ چا۔ تی) (دہ۔ ۱۔ مذ) پنچایت کا مقرر کیا ہوا (۲) عام سب کا (۳) دقت۔ شرکت کا۔ ساجھے کا (۴) غلطی سے تحقیق۔ حرامی۔
 پنچائیتی سالہ - سب کا سالہ۔ ایک قسم کی گالی اور مزاح۔
 پنچم - (پن۔ چم) (دس۔ ۱۔ مذ) پانچواں۔ سات سڑوں میں سے ایک سڑ۔
 پنچہ - (پن۔ چہ۔ ہی) (دس۔ ۱۔ مشت) چاند کی پانچویں تاریخ۔
 پنچنا - (پن۔ چنا) (دق۔ مص) اُگنا۔ پیدا ہونا۔
 پنچھالا - (پن۔ چھا۔ لا) (دہ۔ ۱۔ مذ) پیچھے لگنے والا۔ ٹھنسی۔
 پنچھڑی - (پن۔ چھڑی) (دق۔ ۱۔ مذ) پت پھڑ۔ خزاں کا موسم۔
 پنچھی - (پن۔ چھی) (دہ۔ ۱۔ مذ) پرندہ پھیرو۔
 پنڈ - (دہ۔ ۱۔ مشت) نصیحت۔ ہدایت۔ اُپدیش۔ بھیل بات۔ جی: پنڈلا۔
 پنڈار - (پن۔ دار) (دہ۔ ۱۔ مذ) خیال۔ مخروم فکر (۲) قصور (۳) رائے (۴) تجربہ۔ عذر۔
 پنڈرہ - (پن۔ ڈرہ) (دہ۔ ۱۔ صفت) دس اور پانچ - ۱۵۔
 پنڈر وارہ - (پن۔ ڈر۔ وارہ) (دہ۔ ۱۔ مذ) پنڈرہ دن۔
 پنڈ - (دہ۔ ۱۔ مذ) (۱) پنڈا۔ بدن جسم۔ تن (۲) آبادی۔ سیتی۔ گاؤں (۳) گولا۔ ڈلا۔ لڈو (۴) ہندوؤں میں کریاکرم کرنے والا۔
 پنڈ پڑنا - (۱) محاورہ (۲) سڑ ہونا۔ ذلت لگنا۔ حوالے ہونا۔ پیچھے لگنا (۲) سڑ کی میں آنا۔ داسط پڑنا (۳) جتے میں آنا۔
 پنڈ چھٹنا - (۱) محاورہ (۲) ذلت داری سے برقی ہونا۔ بچھا چھٹنا۔ آزادی ملنا۔ رات ہونا (۲) بے تعلق ہونا (۳) الگ ہونا۔ جدا ہونا۔
 پنڈ چھڑانا - (۱) محاورہ (۲) بچھا چھڑانا۔ بچنا (۲) بچانا۔ نجات دلانا۔
 پنڈ روگ - (۱) جسمانی بیماری۔ بدنی مراضہ (۲) کوڑھ۔ برص (۳) دق۔ تپ۔ کینسر۔

پنڈا - (پن۔ ڈا) (دس۔ ۱۔ مذ) (۱) پنڈت۔ برہمن۔ مذہبی رسوم ادا کرنے والا۔
 پنڈا - (پن۔ ڈا) (دہ۔ ۱۔ مذ) (۱) گولا۔ لگڈر (۲) جسم۔ بدن۔
 پنڈا پھیکا ہونا - (۱) محاورہ (۲) بدن گرم ہونا۔ ہلکا ہلکا بخار ہونا۔
 پنڈارا - (پن۔ ڈا۔ را) (دہ۔ ۱۔ مذ) لیٹرا۔ ڈاکو۔
 پنڈا کورا ہونا - (۱) محاورہ (۲) کونوارہ جانا۔
 پنڈ آل - (پن۔ ڈال) (دہ۔ ۱۔ مذ) نیمہ۔ شایانہ۔ عارضی مکان جو جیسے کے لیے بائس۔ بی اور کپڑے سے تیار کیا جائے۔
 پنڈالو - (پن۔ ڈا۔ لو) (دہ۔ ۱۔ مذ) اردی۔ گھوٹیاں۔ ترکاری۔
 پنڈت - (پن۔ ڈت) (دس۔ ۱۔ مذ) (۱) پڑھا ہوا۔ عالم (۲) معلم۔ ماسٹر۔ پڑھانے والا۔ پانڈھا (۳) جوتشی۔ مجتہم (۴) کشمیری ہندوؤں کا ایک معزز خطاب۔
 پنڈت خانہ - (دہ۔ ۱۔ ف۔ ۱) ہندی خانہ۔ جیل خانہ (۲) جو اُگلنے کا ڈاڑ۔
 پنڈت مانی - (دہ۔ ۱۔ مذ) اپنے آپ کو بہت لائق سمجھنے والا شخص۔
 پنڈ تانی - (پن۔ ڈتا۔ نی) (دہ۔ ۱۔ مشت) (۱) پنڈت کی بیوی۔ برہمن عورت۔ (۲) بچوں کو پڑھانے والی عورت۔ اُستانی۔
 پنڈ تانی - (پن۔ ڈتا۔ ای) (دہ۔ ۱۔ مشت) (۱) پنڈت کا کام پوچھا پات۔ مياہ شادی وغیرہ مراسم دینی کا انجام دلانا (۲) پڑھائی لکھائی کرنا۔ معنی۔
 پنڈک - (پن۔ ڈک) (دس۔ ۱۔ مذ) ناخستہ۔ قمری۔
 پنڈلی - (پنڈ۔ لی) (دہ۔ ۱۔ مشت) (۱) ساق۔ گودا۔ تختے اور گلنے کے درمیان ٹانگ کا حصہ۔
 پنڈو - (پن۔ ڈو) (دق۔ ۱۔ مذ) پُنتہ پھل۔
 پنڈول - (پن۔ ڈول) (دہ۔ ۱۔ مشت) وہ سفید مٹی جو دیواروں پر سفیدی کی بجائے پھیرتے ہیں۔
 پنڈولم - پنڈولم - (۱۔ مذ) کلاک یا گھڑی کا ٹنگن۔
 پنڈی - (پن۔ ڈی) (دہ۔ ۱۔ مشت) (۱) لکڑی۔ گولی۔ بونڈی۔ گولا (۲) قربان گاؤ۔ مذبح (۳) شیولنگ پتھر کا بڑا جس پر پانی ڈالا جاتا ہے۔
 پنڈیس - (پن۔ ڈس) (دہ۔ ۱۔ مشت) (۱) پنڈیس۔ پانکی۔ ڈولا۔
 پنڈس - (Pence) (دہ۔ ۱۔ مذ) برطانیہ کا تانبے کا سب سے چھوٹا سکہ۔ شینگ کا بار ہواں حصہ۔ بیٹی۔
 پنڈس نوئیس - (دہ۔ ۱۔ مذ) حکمہ نہر کا لازم جس کا کام زرعی زمینوں کے پانی کا حساب رکھنا ہوتا ہے۔
 پنڈس ہٹا - (پن۔ سار۔ ہٹا) (دہ۔ ۱۔ مذ) پنڈساریوں کا بازار۔
 پنڈساری - (پن۔ سار۔ ری) (دہ۔ ۱۔ مذ) عطار۔ دوا فروش۔ منگ مرچ۔ مسالے بیچنے والا۔
 پنڈس - (Pencil) (پن۔ سل) (دہ۔ ۱۔ مشت) ٹرمر یا سیسے کا قلم۔ پنڈس۔
 پنڈسولی - (پن۔ سول۔ ای) (دہ۔ ۱۔ مشت) چھوٹی کشتی۔ ڈونگا۔
 پنڈسن - (Pension) (پن۔ سن) (دہ۔ ۱۔ مشت) وظیفہ۔ امداد۔ بہارا۔
 پنڈسز - (Pensioner) (پن۔ سن۔ ز) (دہ۔ ۱۔ مذ) وظیفہ پانے والا۔ وہ شخص جسے ذکری کی میعاد ختم کرنے کے بعد خدمات کے معاوضے میں امداد ملے۔

پہنچی۔ پرن۔ نی۔ (۱۰۔ ۱۔ مٹ) (۱) چاول کے آٹے اور گڑا کالڈو (۲) جھنڈے ہونے کیوں اور گڑا کالڈو۔ چاول کے آٹے اور چینی کی پیٹنی۔

پینیا۔ پین۔ یا۔ (۵۔ صفت) (۱) پانی کا۔ پانی میں بہنے والا (۲) پھیکا۔ بد مزہ۔

پینیا سائب۔ (۵۔ صفت) (۱) پانی کا سائب۔ وہ سائب جو پانی میں رہتا ہے۔

پینیا سوٹ۔ (۵۔ صفت) (۱) پانی کا پتھر۔ پانی کا منبع۔ پانی نکلنے کی جگہ۔

پینیا تما۔ پین۔ یا۔ ت۔ (۵۔ صفت) (۱) سخی۔ نیاس۔ دانا۔ کریم۔

پینیا لہ۔ پین۔ یا۔ لہ۔ (۱۰۔ ۱۔ مٹ) (۱) ایک میوے کا نام جو عثمائی رنگ کا جامس کے برابر ہوتا ہے (۲) پنیلا (۳) پانی کے مزے کا۔ پھیکا۔ بد مزہ۔

پینیا نا۔ پین۔ یا۔ نا۔ (۵۔ صفت) (۱) پانی سے ترک۔ پانی میں جھگڑنا۔ آبپاشی کرنا۔

پانی لنگا (۲) تر ہونا۔ رہنے کے لائق ہونا۔ پانی چھوڑنا۔

پینیا ئی۔ پین۔ یا۔ ای۔ (۵۔ ۱۔ مٹ) (۱) نیکی کا پھل۔ نیک شتی۔ جھلسنا ہسٹ اور اس کا شہد۔

پینیر۔ پین۔ ر۔ (۱۰۔ ۱۔ مٹ) (۱) ایک قسم کا کٹا جو شکا رکی بڑی رہتا ہے۔

پینیر۔ پین۔ ر۔ (۱۰۔ ۱۔ مٹ) (۱) دودھ کو کھانڈ کر بنایا ہوا نمکین مادہ (۲) پوڑا ہوا دی۔

پینیر جمانا۔ (۱۰۔ محاورہ) (۱) پینیری کی لکیریں بنانا (۲) یوڈا نا۔ جو جمانا۔

پینیر جمانا۔ (۱۰۔ محاورہ) (۱) بلانا۔ مانوس کرنا۔ راعناب کرنا (۲) کا ٹھنڈا۔ قابو کرنا۔

پینیر کے ساتھ ششکہ کھاؤ۔ (مشل) اپنا کام کر دو۔ خوش رہو۔ اپنی راہ لو۔

پینیر مایر۔ (۱۰۔ ۱۔ مٹ) (۱) محاورہ کے پتے کے پیٹ میں جما ہوا دودھ (۲) پینے کی لاگ سے پھاڑا ہوا دودھ۔

پینیری۔ پین۔ ری۔ (۱۰۔ ۱۔ مٹ) (۱) زمین کا ٹکڑا جہاں پود لگائی جائے

(۲) پودوں کا ذخیرہ (۳) کھٹے کا گودا جو پوست اور دانوں کے درمیان ہوتا ہے

پینیری جمانا۔ (۱۰۔ محاورہ) (۱) پود لگانا۔ پود جمانا (۲) ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ پودے لگانا (۳) اپنا رنگ جمانا۔ اپنے ڈھب پر لانا۔ بنیاد جمانا۔

پینیلا۔ پین۔ لہ۔ (۵۔ صفت) (۱) پانی کا۔ پانی والا (۲) ایک قسم کا کیرا۔

پینکچر۔ (Puncture) پینک۔ چر۔ (انگ) (۱) مذ۔ سوراخ۔ چھید۔

پینکھ۔ (۱۰۔ ۱۔ مذ) (۱) بازو۔ پر۔ بال۔

پینکھ پساڑنا۔ (۱۰۔ محاورہ) (۱) پر پھیلا نا (۲) اڑنے کا ارادہ کرنا (۳) لالچ کرنا۔

پینکھا۔ پین۔ کھا۔ (۵۔ ۱۔ مذ) ہوا بھلنے کا آکر۔ پینا۔ بادکش۔

پینکھا جھلنا۔ پینکھا کرنا۔ بلانا۔ بادکش کھیننا۔

پینکھے لگ جمانا۔ (۱۰۔ محاورہ) دل دھرنا۔ اختلاج ہونا (۲) پنکھوں کا آدیال ہونا۔

پینکھڑی۔ (۱۰۔ ۱۔ مٹ) (۱) پھول کی پتی۔ ورق (۲) بازو۔ پینکھ۔ پر۔

پینکھیا۔ پین۔ کھ۔ یا۔ (۵۔ ۱۔ مٹ) (۱) پینکھا کی تفسیر۔ جھوٹا پینکھا۔

پینکی۔ پین۔ کی۔ (۵۔ ۱۔ مٹ) (۱) اینون کے نشے کی حالت۔ پینک (۲) (مذ) وہ شخص جو پینک کے نشے میں ہو۔ نشے میں اونگھنے کی حالت۔

پینگ پانگ۔ (Ping Pong) (انگ) (۱۰۔ مذ) مغربی کھیل جو میز پر چھوٹے بے اور گیند سے جا لگا کر کھیلتے ہیں۔

پینگا۔ پین۔ گا۔ (۵۔ صفت) لنگڑا۔ میڑھی ٹانگوں والا۔ لنگھا۔

پینکت۔ پینکتی۔ پین۔ گت۔ (پینگ) (بی۔ ۱۔ ۱۔ مٹ) (۱) صفت (۲) تظار (۲) گردہ۔ جمع۔ جماعت۔ پارٹی۔

پینگل۔ (۱۰۔ ۱۔ مٹ) (۱) آق۔ (۱) مذ۔ اولاد۔ شیر خوار بچہ۔

پینگول۔ پین۔ گل۔ (۱۰۔ ۱۔ مٹ) (۱) بالی۔

پینگل۔ پین۔ گل۔ (۱۰۔ ۱۔ مٹ) (۱) مذ۔ جس کے ہاتھ پاؤں میڑھے ہوں۔

پینگورا۔ پینگورا۔ پینگوڑہ۔ پین۔ گورا۔ (پن۔ گورا) (پن۔ گورا) (۱۰۔ ۱۔ مذ) ہنڈ والا۔ جھولا۔ گہوارہ۔ پاننا۔

پینم۔ پین۔ نی۔ (۱۰۔ ۱۔ مٹ) (۱) زمین کا ٹکڑا جہاں پود لگائی جائے

پیننا۔ پین۔ نا۔ (۵۔ ۱۔ مٹ) (۱) رونی کو صاف کرنا یا ڈھنڈنا۔

پیننا۔ پین۔ نا۔ (۵۔ ۱۔ مٹ) (۱) ملامت کرنا (۲) بے عزتی کرنا (۳) گالیاں دینا۔

پینوارا۔ پین۔ وا۔ (۱۰۔ ۱۔ مذ) (۱) مذ۔ طویل قصہ۔ لمبی کہانی۔ داستان۔ گزری ہوئی باتوں کا طویل بیان۔

پ۔ و

پو۔ (۵۔ ۱۔ مٹ) (۱) پیدیدہ مسج۔ نوز کا ترکا۔ سورا (۲) نرو بازوں کی اصطلاح میں ایک کے معنی میں ہے (۳) پیاد۔ سیبل (۴) پاؤ کا غٹف۔

پو بارہ۔ (۱۰۔ ۱۔ مٹ) (۱) پانسے کے داڑ میں ایک پو کا حال (۲) حیات۔ فتح اقبال مندی۔

پو بارہ ہونا۔ (۱۰۔ محاورہ) (۱) حیات ہونا۔ داؤ لگانا۔ پانسے پڑنا۔ بن آنا (۲) پانچوں گھسی میں ہونا (۳) اقبال باور ہونا۔ قسمت جاگنا۔

پو پھلنا۔ مسج صادق ہونا۔ تر کا ہونا۔ پیدیدی ہونا۔

پو سیرا۔ پوسیری۔ (۱۰۔ ۱۔ مذ) پاؤ سیر کا باٹ۔ چڑا۔

پو قدم جال۔ (۱۰۔ ۱۔ مٹ) (۱) وہ جال جس میں چھوٹے چھوٹے قدم رکھے جائیں۔

پو۔ (۱۰۔ ۱۔ مٹ) (۱) پانچ۔ پو۔

پو۔ (۱۰۔ ۱۔ ۱۔ مٹ) (۱) چھارم۔ جو جھٹائی۔ ٹہم پاؤ اڈ قسم پیمانہ (۲) پوسیرا۔

پنوارن۔ (۵۔ مٹ) پان پیچنے والی عورت۔

پنواڑی۔ پین۔ ری۔ (۱۰۔ ۱۔ مذ) پان پیچنے والا۔

پنواڑیاں۔ پان کے کھیت (ق)

پنونا۔ پین۔ نا۔ (۵۔ مٹ) (۱) رونی صاف کرنا یا ڈھنڈنا۔

پنونا۔ پین۔ نا۔ (۵۔ مٹ) (۱) لعن طعن کرنا۔ گالیاں دلوانا۔

پنہال۔ پین۔ ہال۔ (۵۔ مٹ) (۱) چھپا ہوا۔ پوشیدہ۔

پنہانا۔ پین۔ نا۔ (۵۔ مٹ) (۱) دودھ دہسنے کو حق پانی سے دھونا۔ حق زانا۔

پنہانا۔ پین۔ نا۔ (۵۔ مٹ) (۱) پنہانا۔ زیب تن کرنا۔

پنہنکر بگاڑنا۔ (۱۰۔ محاورہ) پریشان کرنا۔ حواس بگاڑنا۔

پنہنی۔ پین۔ ہی۔ (۵۔ ۱۔ مٹ) (۱) پانچ۔ پانچ۔

پنہنیار۔ پنہنیار۔ یا۔ نا۔ (۵۔ ۱۔ مذ) پانی بھرنے والا۔ کھار۔ سقا۔ بہتیش۔

پنہنیاری۔ پنہنیار۔ ری۔ (۵۔ ۱۔ مٹ) (۱) پنہنیار کی تانیش۔ پانی بھرنے والی عورت

پنہنی۔ پین۔ نی۔ (۵۔ ۱۔ مٹ) (۱) دانگ بد مزہ کے ورق۔ تاؤ۔ تھتے۔ کاغذ۔

(۲) ایک قسم کی لمبی کھاس جو پھیپوں پر ڈالی جاتی ہے۔

۲۰ تولد۔ پاؤسیر جو حقائی سیر (۳) وہ بوتل جس میں پاؤسیر سیال چیز سما سکے۔
 پلوآ۔ (پو۔ آ) (۱) مذ۔ پوڑا۔ گھگلا۔ پوکڑا۔
 پلوآ۔ (۲) مذ۔ (۱) سانپ کا پتھر (۲) ایک قسم کی گھاس۔
 پلوآنج۔ (پ۔ دا) (۱) ذر۔ (۱) مذ۔ (۱) باجی کی بیج (۲) ادنیٰ یا کھینے لوگ۔
 پلوآل۔ (پو۔ آل) (۱) مذ۔ (۱) مسٹ۔ سوکھی گھاس بیوس۔ پیال۔
 پلوآئی۔ (پ۔ و۔ ای) (۱) مذ۔ (۱) مسٹ۔ (۱) جوتی کا ایک پاؤں (۲) زنجیر سلاسل۔ پیری
 پلوپ۔ (Pope) (انگ۔ ۱) مذ۔ (۱) رومن کیتھولک فرقے کا سب سے
 بڑا پادری۔ پاپائے روم۔
 پلوپیٹ۔ (پ۔ و۔ ق) (۱) مذ۔ طوطا۔
 پلوپٹا۔ (پو۔ پ۔ ٹا) (۱) مذ۔ چھٹا۔ پشاپ کی تعصیل۔ اندام نہانی (۲) پوٹا (ق)
 پلوپٹا۔ (پو۔ پ۔ لا) (۱) مذ۔ (۱) صف۔ بے دانت کا جس کے دانت گر پڑے ہوں۔
 پلوپٹے سے ہڈی نہیں چھوٹی۔ (مثل) کم زور سے سخت کام نہیں ہو سکتا۔
 پلوپٹی۔ (پو۔ پ۔ ٹی) (۱) مذ۔ (۱) مسٹ۔ منڈے بجانے کا ایک باجر۔
 پلوٹ۔ پلوٹھ۔ (پو۔ آ۔ ۱) مذ۔ (۱) شے یا کالج کے دانے (۲) دانہ۔ نہر باری۔ فوٹ۔
 پلوٹ پورا کرنا۔ نشانا۔ انتقام کو پہنچانا۔ جوتوں کر کے پورا کرنا۔ کمی پورا کرنا۔
 پلوٹ کا پھل نہیں ہے۔ زبور کی تم سے کوئی چیز باقی نہیں۔
 پلوٹ۔ (پو۔ آ۔ ۱) مذ۔ (۱) بیٹا۔ پیر۔ لڑکا۔ پتر۔ فرزند۔
 پلوٹ بیگانے جو بیٹے، منتر رالوں بھریئے۔ (ایش) دوسرے کے اولاد کو
 پانا عبت ہے۔ بیگانی اولاد کی پرورش میں نقصان ہی نقصان ہوتا ہے۔
 پلوٹ بہو۔ بیٹو کی دہن پوتے کی بیوی۔
 پلوٹ فیتری کی کا، چال چیلے احدیوں کی۔ (ایش) منفس میں امیرانہ ٹاٹ۔
 عزیز ہو کر امیرانہ عادت اختیار کرنا۔
 پلوٹ کپوت ہو کر پورا پورا کماں کماں بھی نہیں ہو سکتی۔ (ایش) میٹا ماں
 کے ساتھ برابر تاد کرے تو کرے لیکن ماں بیٹے کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی۔
 پلوٹ کے پاؤں پالنے میں دیکھے جاتے ہیں۔ (ایش) یعنی بڑے بیٹے
 آنا زمین ہی میں معلوم ہو جاتے ہیں۔
 پلوٹا۔ (پو۔ ٹا) (۱) مذ۔ (۱) بیٹے کا بیٹا (۲) پھالا۔ کوچی۔ بڑش۔ گلاب (۳) پوتھی۔ سیدی
 سیدی مٹی (۴) لگان۔ مزدور زمین کا محصول۔
 پلوٹا پھیرنا۔ (۱) محاورہ) دیواروں کو سیدی لگانا۔ سیدی مٹی سے رنگنا (۲) کوچی
 کرنا۔ پچار کرنا۔
 پلوٹر۔ (پو۔ آ۔ ۱) مذ۔ پاک ہونے کا ذریعہ (۲) پاک کرنے کا منتر (۳) صاف
 کرنے والا۔ حاصل۔ بسترا۔
 پلوٹڑا۔ (پو۔ ٹا) (۱) مذ۔ ہنا پھ۔ گدی جو پتے کے نیچے رکھے ہیں کو بستر
 یا خانہ پشاپ سے آلودہ نہ ہو۔
 پلوٹڑوں سے واقف۔ (۱) صف۔ ابتدا سے جاننے والا۔
 پلوٹڑوں کے (ریش) (امیر) (نواب) (۱) مذ۔ عادلانی ریش۔ امیران
 امیر۔ تدمی نواب۔ ریش ابن ریش۔
 پلوٹنا۔ (پو۔ ٹا) (۱) مذ۔ (۱) کوچی پھیرنا۔ پوتا پھیرنا (۲) کوچی۔ پوتا۔
 پلوٹوں پھلے۔ (۱) کھر دھاری، کثرت سے بیٹے پیدا ہوں۔
 پلوٹھی۔ (پو۔ ٹھی) (۱) مذ۔ (۱) کتاب۔ پشت (۲) لہسن کی گانٹھ۔

پلوٹھیا۔ (پو۔ ٹھیا) (۱) مذ۔ (۱) مسٹ۔ (۱) تباکو کی تھیلی جسے گوارا پھومی میں رکھتے ہیں۔
 پلوٹی۔ (پو۔ ٹی) (۱) مذ۔ (۱) مسٹ۔ بیٹے کی لڑکی۔ بیٹے کی بیٹی۔
 پلوٹ۔ (پو۔ ٹ) (۱) مذ۔ (۱) مسٹ۔ (۱) ٹھڑی۔ بندل۔ ٹھڑ۔ پتارہ۔ بوجھ (۲) منہ۔
 دو دوتوں کے درمیان سادی بگ (۳) چادر جس میں مردہ لپیٹا جاتا ہے (۴)
 زیادتی۔ کثرت۔ افراط۔ جیسے عزم کی بوٹ۔
 پلوٹ کی چادر۔ (۱) مسٹ۔ (۱) کفن کے اوپر کی چادر جو مرنے کے ساتھ قبر میں
 دفن کی جاتی ہے۔
 پلوٹا۔ (پو۔ ٹا) (۱) مذ۔ (۱) مسٹ۔ (۱) جافروں کا معدہ (۲) بساط حیثیت
 (۳) طاقت۔ مجال (۴) پرندوں کا وہ پتہ جس کے پر نہ نکلے ہوں۔
 پلوٹا تر ہونا۔ (۱) محاورہ) شکم سیر ہونا۔ بے پردا ہونا۔ بے نکر ہونا۔ مالدار ہونا
 فراخ بالی ہونا۔
 پلوٹاش۔ (Potash) (پو۔ ٹاش) (انگ۔ ۱) مذ۔ (۱) پٹیشم۔ کاربن اور
 آکسین کا مرکب۔
 پلوٹلا۔ (پو۔ ٹلا) (۱) مسٹ۔ (۱) مسٹ۔ (۱) بیڑ (۲) بڑا بندل۔ گھڑ۔
 پلوٹی۔ (پو۔ ٹی) (۱) مذ۔ (۱) مسٹ۔ (۱) ٹھیل۔ گانٹھ۔ چھوٹی سی گھڑی۔
 پلوٹی۔ (پو۔ ٹی) (۱) مذ۔ (۱) مسٹ۔ (۱) سہارا۔ مقابلہ۔
 پلوٹی دینا۔ سہارا دینا (ق)۔
 پلوٹا۔ (پو۔ ٹا) (۱) مذ۔ (۱) مسٹ۔ (۱) عبادت۔ پرستش۔ بندگی (۲) سیوا۔ خدمت۔
 پھل (۳) نذر۔ نیاز۔ بھینٹ۔ پڑھا دا۔ قرانی۔
 پلوٹا باط۔ (پو۔ ٹا) (۱) مذ۔ (۱) مسٹ۔ (۱) عبادت۔ پرستش۔
 پلوٹیر۔ (پو۔ ٹیر) (۱) مذ۔ (۱) مسٹ۔ (۱) عزت یا پرستش کے لائق بزرگ۔
 پلوٹیر یا د۔ (پو۔ ٹیر) (۱) مذ۔ (۱) مسٹ۔ (۱) عزت یا پرستش کے لائق پاؤں (۲) وہ بزرگ
 جس کے پاؤں عزت یا پرستش کے لائق ہوں۔
 پلوٹ۔ (پو۔ ٹ) (۱) مسٹ۔ (۱) لغو۔ سپردہ۔ جہل (۲) ذلیل۔ حیر۔ پاچی۔ کینڈ۔ رنج
 (۳) ہرزہ سرا۔ یادہ گو۔
 پلوٹ پچار۔ (ق) تحقیق۔ دریافت۔ پوٹھ گھ۔
 پلوٹ کوٹی۔ (۱) مذ۔ (۱) مسٹ۔ (۱) فضول۔ لنگھ۔
 پلوٹھ۔ (پو۔ ٹھ) (۱) مذ۔ (۱) مسٹ۔ (۱) دریافت۔ پرستش۔ تلاش۔ تفتیش (۲) مزدور۔ خواہش
 (۳) عزت۔ آؤ بھکت۔
 پلوٹھ گھ۔ (۱) مسٹ۔ (۱) استفسار۔ تفتیش۔ تحقیق (۲) خاطر داری۔ قراضع۔ عزت۔
 پلوٹھا۔ (پو۔ ٹھا) (۱) مذ۔ (۱) مسٹ۔ (۱) استعارہ۔ بخوبی سے آئندہ حالات کی دریافت
 (۲) دریافت کیا۔ پوٹھنا کا نامنی۔
 پلوٹھا پھینچا۔ (۱) مذ۔ (۱) مسٹ۔ (۱) پوٹھ گھ (۲) استعارہ کرنا۔ فال۔ شگون (۳) تحقیق تفتیش
 پوٹھنا جانا۔ (۱) محاورہ) باز پرس ہونا۔ دریافت کیے جانا۔
 پوٹھتے پوٹھتے خدا کا کھر مل جاتا ہے (۱) (ایش) نعمت اور جو سے انسان
 پوٹھتے پوٹھتے ولی پہنچ جاتے ہیں (۱) کامیاب ہو جاتا ہے۔
 پوٹھین۔ (پو۔ ٹھین) (۱) مذ۔ (۱) مسٹ۔ (۱) فال۔ متبر۔ استعارہ کا بیجہ۔ شگون کا پھل۔
 (۲) سوال کا جواب (۳) (پو۔ ٹھین) جھانڈن جھوڑن۔ ٹھڑچن (۴) وہ چیز
 جس سے نجاست صاف کریں۔ صافی۔
 پوٹھنا۔ (پو۔ ٹھنا) (۱) مذ۔ (۱) مسٹ۔ (۱) جست کرنا۔ تلاش کرنا۔ چھان بین کرنا (۳)

دریافت کرنا معلوم کرنا۔ استفسار کرنا (۴) جواب چاہنا (۵) آدھنگت کرنا۔ عزت آبرو کرنا (۶) فشا معلوم کرنا۔ مشورہ کرنا۔ طلب کرنا (۷) خبر لینا۔ مدد کرنا (۸) مخاطب ہونا۔ دھیان دینا۔

پوچھنا یا چھنا۔ (۱) محاورہ (۲) دریافت کرنا۔ پرسش کرنا (پچھنا تا بن فعل ہے) پوچھو زمین کی، توہے آسمان کی۔ [ذیل] سوال پکھ۔ جواب پکھ۔

پلوڈ۔ (۱) منٹ (۲) وہ بودا جو ایک جگہ بود دوسری جگہ لگایا جا سکے (۳) نسل۔ اولاد۔ خاندان۔

پلوڈ (جھاننا) لگانا۔ (۱) محاورہ (۲) بنیاد قائم کرنا۔ مطلب براری کی تدبیر کرنا۔ (۳) پودے کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لگانا (۴) تعلق قائم کرنا۔

پلوڈا۔ (پوڈ) (۱) منڈ (۲) ذرہ (۳) ذرہ (۴) ذرہ (۵) ذرہ (۶) ذرہ (۷) ذرہ (۸) ذرہ (۹) ذرہ (۱۰) ذرہ (۱۱) ذرہ (۱۲) ذرہ (۱۳) ذرہ (۱۴) ذرہ (۱۵) ذرہ (۱۶) ذرہ (۱۷) ذرہ (۱۸) ذرہ (۱۹) ذرہ (۲۰) ذرہ (۲۱) ذرہ (۲۲) ذرہ (۲۳) ذرہ (۲۴) ذرہ (۲۵) ذرہ (۲۶) ذرہ (۲۷) ذرہ (۲۸) ذرہ (۲۹) ذرہ (۳۰) ذرہ (۳۱) ذرہ (۳۲) ذرہ (۳۳) ذرہ (۳۴) ذرہ (۳۵) ذرہ (۳۶) ذرہ (۳۷) ذرہ (۳۸) ذرہ (۳۹) ذرہ (۴۰) ذرہ (۴۱) ذرہ (۴۲) ذرہ (۴۳) ذرہ (۴۴) ذرہ (۴۵) ذرہ (۴۶) ذرہ (۴۷) ذرہ (۴۸) ذرہ (۴۹) ذرہ (۵۰) ذرہ (۵۱) ذرہ (۵۲) ذرہ (۵۳) ذرہ (۵۴) ذرہ (۵۵) ذرہ (۵۶) ذرہ (۵۷) ذرہ (۵۸) ذرہ (۵۹) ذرہ (۶۰) ذرہ (۶۱) ذرہ (۶۲) ذرہ (۶۳) ذرہ (۶۴) ذرہ (۶۵) ذرہ (۶۶) ذرہ (۶۷) ذرہ (۶۸) ذرہ (۶۹) ذرہ (۷۰) ذرہ (۷۱) ذرہ (۷۲) ذرہ (۷۳) ذرہ (۷۴) ذرہ (۷۵) ذرہ (۷۶) ذرہ (۷۷) ذرہ (۷۸) ذرہ (۷۹) ذرہ (۸۰) ذرہ (۸۱) ذرہ (۸۲) ذرہ (۸۳) ذرہ (۸۴) ذرہ (۸۵) ذرہ (۸۶) ذرہ (۸۷) ذرہ (۸۸) ذرہ (۸۹) ذرہ (۹۰) ذرہ (۹۱) ذرہ (۹۲) ذرہ (۹۳) ذرہ (۹۴) ذرہ (۹۵) ذرہ (۹۶) ذرہ (۹۷) ذرہ (۹۸) ذرہ (۹۹) ذرہ (۱۰۰) ذرہ (۱۰۱) ذرہ (۱۰۲) ذرہ (۱۰۳) ذرہ (۱۰۴) ذرہ (۱۰۵) ذرہ (۱۰۶) ذرہ (۱۰۷) ذرہ (۱۰۸) ذرہ (۱۰۹) ذرہ (۱۱۰) ذرہ (۱۱۱) ذرہ (۱۱۲) ذرہ (۱۱۳) ذرہ (۱۱۴) ذرہ (۱۱۵) ذرہ (۱۱۶) ذرہ (۱۱۷) ذرہ (۱۱۸) ذرہ (۱۱۹) ذرہ (۱۲۰) ذرہ (۱۲۱) ذرہ (۱۲۲) ذرہ (۱۲۳) ذرہ (۱۲۴) ذرہ (۱۲۵) ذرہ (۱۲۶) ذرہ (۱۲۷) ذرہ (۱۲۸) ذرہ (۱۲۹) ذرہ (۱۳۰) ذرہ (۱۳۱) ذرہ (۱۳۲) ذرہ (۱۳۳) ذرہ (۱۳۴) ذرہ (۱۳۵) ذرہ (۱۳۶) ذرہ (۱۳۷) ذرہ (۱۳۸) ذرہ (۱۳۹) ذرہ (۱۴۰) ذرہ (۱۴۱) ذرہ (۱۴۲) ذرہ (۱۴۳) ذرہ (۱۴۴) ذرہ (۱۴۵) ذرہ (۱۴۶) ذرہ (۱۴۷) ذرہ (۱۴۸) ذرہ (۱۴۹) ذرہ (۱۵۰) ذرہ (۱۵۱) ذرہ (۱۵۲) ذرہ (۱۵۳) ذرہ (۱۵۴) ذرہ (۱۵۵) ذرہ (۱۵۶) ذرہ (۱۵۷) ذرہ (۱۵۸) ذرہ (۱۵۹) ذرہ (۱۶۰) ذرہ (۱۶۱) ذرہ (۱۶۲) ذرہ (۱۶۳) ذرہ (۱۶۴) ذرہ (۱۶۵) ذرہ (۱۶۶) ذرہ (۱۶۷) ذرہ (۱۶۸) ذرہ (۱۶۹) ذرہ (۱۷۰) ذرہ (۱۷۱) ذرہ (۱۷۲) ذرہ (۱۷۳) ذرہ (۱۷۴) ذرہ (۱۷۵) ذرہ (۱۷۶) ذرہ (۱۷۷) ذرہ (۱۷۸) ذرہ (۱۷۹) ذرہ (۱۸۰) ذرہ (۱۸۱) ذرہ (۱۸۲) ذرہ (۱۸۳) ذرہ (۱۸۴) ذرہ (۱۸۵) ذرہ (۱۸۶) ذرہ (۱۸۷) ذرہ (۱۸۸) ذرہ (۱۸۹) ذرہ (۱۹۰) ذرہ (۱۹۱) ذرہ (۱۹۲) ذرہ (۱۹۳) ذرہ (۱۹۴) ذرہ (۱۹۵) ذرہ (۱۹۶) ذرہ (۱۹۷) ذرہ (۱۹۸) ذرہ (۱۹۹) ذرہ (۲۰۰)

ہونا۔ امید برآنا (۸) عطربھی کو پینا۔ مہرجانا۔

پورے دنوں سے ہونا۔ (۱) محاورہ (۲) نوپینے کا محل ہونا۔ پوری مدت کا محل ہونا۔

پورے دن لگانا۔ (۱) محاورہ (۲) عمل کا نواں ہمینہ مشورہ ہونا۔

پورب۔ (پورب) (۱) منڈ (۲) منڈ (۳) منڈ (۴) منڈ (۵) منڈ (۶) منڈ (۷) منڈ (۸) منڈ (۹) منڈ (۱۰) منڈ (۱۱) منڈ (۱۲) منڈ (۱۳) منڈ (۱۴) منڈ (۱۵) منڈ (۱۶) منڈ (۱۷) منڈ (۱۸) منڈ (۱۹) منڈ (۲۰) منڈ (۲۱) منڈ (۲۲) منڈ (۲۳) منڈ (۲۴) منڈ (۲۵) منڈ (۲۶) منڈ (۲۷) منڈ (۲۸) منڈ (۲۹) منڈ (۳۰) منڈ (۳۱) منڈ (۳۲) منڈ (۳۳) منڈ (۳۴) منڈ (۳۵) منڈ (۳۶) منڈ (۳۷) منڈ (۳۸) منڈ (۳۹) منڈ (۴۰) منڈ (۴۱) منڈ (۴۲) منڈ (۴۳) منڈ (۴۴) منڈ (۴۵) منڈ (۴۶) منڈ (۴۷) منڈ (۴۸) منڈ (۴۹) منڈ (۵۰) منڈ (۵۱) منڈ (۵۲) منڈ (۵۳) منڈ (۵۴) منڈ (۵۵) منڈ (۵۶) منڈ (۵۷) منڈ (۵۸) منڈ (۵۹) منڈ (۶۰) منڈ (۶۱) منڈ (۶۲) منڈ (۶۳) منڈ (۶۴) منڈ (۶۵) منڈ (۶۶) منڈ (۶۷) منڈ (۶۸) منڈ (۶۹) منڈ (۷۰) منڈ (۷۱) منڈ (۷۲) منڈ (۷۳) منڈ (۷۴) منڈ (۷۵) منڈ (۷۶) منڈ (۷۷) منڈ (۷۸) منڈ (۷۹) منڈ (۸۰) منڈ (۸۱) منڈ (۸۲) منڈ (۸۳) منڈ (۸۴) منڈ (۸۵) منڈ (۸۶) منڈ (۸۷) منڈ (۸۸) منڈ (۸۹) منڈ (۹۰) منڈ (۹۱) منڈ (۹۲) منڈ (۹۳) منڈ (۹۴) منڈ (۹۵) منڈ (۹۶) منڈ (۹۷) منڈ (۹۸) منڈ (۹۹) منڈ (۱۰۰)

پلوڑی - (پلوڑی) (دف - ا. مٹ) گھوڑے کا پیش بند۔ مہری۔ وہ شہر جو گھوڑے کے منہ کے گردا گرد رہتا ہے۔

پوزیشن - (Position) (پو۔ زی۔ شن) (انگ - ا. مٹ) (۱) حالت انڈاز۔ وضع (۲) مورچہ۔ مقام (۳) حیثیت۔ صورت حال (۴) عہدہ۔ مرتبہ۔ پڑوس - (دہ - ا. مٹ) فصلی سن (بجری) کاواں ہمیشہ جو تھینا دسمبر کی پندرھویں تاریخ سے جنوری کی پندرھویں تاریخ تک رہتا ہے۔

پوسٹ - (دف - ا. مٹ) (۱) پرم۔ کھال۔ چھلکا۔ جلد (۲) کوکنا۔ خشتاش کا ڈوڈا۔

پوسٹ (اُتارنا) کھینچنا - (۱) عمارت کھال کھینچنا۔ کھال اُتارنا۔

پوسٹ کندہ - (۱) کھال اُتارنا (۲) صاف صاف۔ کھلم کھلا۔ کھری۔

پوسٹ کھر - (۱) (۱) پست خاں۔

پوسٹی - (پوس۔ تی) (دف - ا. مٹ) (۱) سٹ۔ کابل۔ آکسی۔ بھول (۲) احمق۔ بے وقوف (۳) وہ شخص جو خشتاش کے ڈوڈے گھول کر پیٹے (۴) ایونی۔

پوسٹین - (پوس۔ تین) (دف - ا. مٹ) (۱) کاکوٹ۔ چڑے کا بچہ۔

پوسٹ - (Post) (انگ - ا. مٹ) (۱) چھٹی خط (۲) عہدہ (۳) چوک۔

پوسٹ آفس - (Post Office) ڈاک خانہ۔ ڈاک کادفتر۔

پوسٹ کارڈ - (Post Card) ڈاک کا خط۔

پوسٹ ماسٹر - (Post Master) ڈاک خانے کا افسر۔ ہتتم ڈاک

پوسٹ ماسٹر جنرل - (Post Master General) صوبہ بھر کے ڈاک خانوں کا اعلیٰ افسر۔

پوسٹ مین - (Postman) چھٹی رساں۔ ڈاک کا پرکارہ۔ ڈاکیر۔

پوسٹر - (Poster) (پوس۔ ٹر) (انگ - ا. مٹ) (۱) اشتہار (جو شارع عام پر لٹکا یا جائے) (۲) رنگی (دہ گنبد جو یہودی گول پوسٹ پر سے گر جائے۔

پوشل آرڈر - (انگ - ا. مٹ) ایک قسم کی ہنڈی جو ڈاک خانے والے روپیہ لے کر دیتے ہیں اور اس کا روپیہ کسی دوسرے شہر میں رہنے والے آدمی وہاں کے ڈاک خانے سے وہ رسید دیکھا حاصل کر سکتا ہے۔

پوشل اسٹامپ - (انگ - ا. مٹ) ڈاک کے ٹکٹ۔

پوشل ڈسارٹمنٹ - (انگ - ا. مٹ) ڈاک خانے کا ٹکر۔

پوشل مارتیم - (Postmortem) (انگ - ا. مٹ) مرنے کے بعد لاش کا طبی معائنہ۔

پوسٹیج - (Postage) ڈاک کا حصول۔

پوشل گائیڈ - (Postal Guide) (پوس۔ ٹل۔ گائیڈ) (انگ - ا. مٹ) ڈاک کی ہدایات۔ ڈاک خانے کے قواعد کی کتاب۔

پوسٹا - (پوس۔ نا) (دہ - ا. مٹ) پرورش کرنا۔ تعلیم و تربیت کرنا۔ عام طور پر پالنا کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔

پوش - (دف) "پیش شو" کا مخفف (۱) منہ سینے کی چیز۔ کپڑا۔ مرکبات کے آخر میں استعمال ہوتا ہے۔ جیسے سیاہ پوش۔ پنگ پوش۔

پوش پوش - (۱) پچو پچو۔ پٹو پٹو۔ ایک جانب ہو۔ سر کو کنارے ہو۔

پوشاک - (پوشاک) (دف - ا. مٹ) لباس۔ پہناؤ۔ پہننے کے کپڑے۔

پوشاک بڑھانا - (۱) مٹ) لباس اُتارنا کپڑے اُتارنا۔

پوشاکی - (پوشاکی) (دف - مٹ) (۱) مٹ) لباس پہننے کے قابل (۲) ہانکا پھیلا۔

پوشش - (پوشش) (دف - ا. مٹ) (۱) مٹ) لباس (۲) غلاف۔ اُوپر منڈھنے کا کپڑا۔

پوشی - (دف - ا. مٹ) چھپانا۔ مرکبات میں استعمال ہوتا ہے۔ جیسے چشم پوشی۔ جزم پوشی۔

پوشیدگی - (پوشی۔ ڈگی) (دف - ا. مٹ) غلط۔ تہنائی۔ گوشہ نشینی۔ پردہ۔ اخفا۔

پوشیدنی - (دف - ا. مٹ) پہننے کے کپڑے۔

پوشیدہ - (پوشی۔ ڈہ) (دف - مٹ) (۱) چھپا ہوا۔ ہنال (۲) در پردہ۔ غائب۔ پردے میں۔

پوکر - (Poker) (پوکر) (انگ - ا. مٹ) تاش کا ایک کھیل۔

پوکنا - (۱) مٹ) گھوڑے کا پتی لید کرنا۔

پوکھر - (پوکھر) (دہ - ا. مٹ) (۱) تالاب۔ جو بیڑ ساگر (۲) پٹے بازی میں ایک ضرب بول۔ (۱) مٹ) اولاد۔ بچے۔

پول - (Pole) (انگ - ا. مٹ) (۱) ساڑھے پانچ گز کا پیمانہ (۲) پولینڈ کا ہاتھدہ (۳) بانس۔ بھجا۔

پول - (دہ - ا. مٹ) (۱) کھوکھلا پن۔ جوف۔ خلا (۲) چھانک۔ دروازہ۔ پُل۔

پول - (دف - ا. مٹ) نقدی۔ پیسہ۔

پول کھلنا - (۱) عمارت (۲) تختہ استکار ہوجانا۔ عیب کھل جانا۔

پوللا - (پوللا) (دہ - ا. مٹ) (۱) خانہ۔ جوف دار۔ کھوکھلا (۲) نرم۔ ملائم۔ نازک (۳) ہلکا پوللا۔ (پوللا) (دہ - ا. مٹ) گٹا۔ کانس یا پھونس کا گٹھا۔

پوللا - (پوللا) (دف - ا. مٹ) (۱) فولاد نہایت عمدہ لوہا (۲) سمٹ۔ مضبوط۔ پکا۔ مستحکم پولیٹ بیورو - (Polit Bureau) (پولٹ۔ بیورو) (انگ - ا. مٹ) پارلیمنٹ بیورو (Political Bureau) سیاسی دفتر کا مخفف۔ کیورنٹ پارٹیوں کا مرکزی ادارہ۔

پولنگ - (پولنگ) (دہ - ا. مٹ) (۱) تیر کا چھوٹا پھل (۲) گھاس کا گٹھا جسے بے بانس کے سر سے پر باندھ کر سمت بائیں کو ڈراتے ہیں۔

پولنگ - (Polling) (پولنگ) (انگ - ا. مٹ) رائے دینے کے لیے رائے دہندگان کا کسی خاص جگہ جمع ہونا۔ رائے دہندگی۔

پولنگ اسٹیشن - (Polling Station) وہ مقام جہاں رائے دہندگان اپنا ووٹ ڈالتے ہیں۔

پولنگ بوتھ - (Polling Booth) انتخابات میں ووٹ ڈالنے کی جگہ۔

پولمن - (دہ - ا. مٹ) پھولوں کا غبار۔

پولو - (Polo) (پولو) (انگ - ا. مٹ) ایک کھیل جو کھڑی کی گیند اور بے ڈنڈے سے گھوڑے پر چڑھ کر کھیلے ہیں۔ جو گالمن۔

پولی - (داد) (مجمول سے) کھوکھل۔

پولی - (داد) (معروف سے) (۱) مٹ) چھوٹا مٹھا یا گٹھا (۲) کہاؤں کی قطار۔

پولی - (دہ - مٹ) دروازہ۔ دلیز۔

پولیس - (Police) (پولیس) (انگ - ا. مٹ) وہ حکم جو انسداد برام اور امن عامہ قائم رکھنے کا کام کرتا ہے۔ تھانے کے اہل زمین۔

پہلا - (پہلا - ۱) (۱) صفحہ ۱۱، اول کا شروع کا ابتدائی - اولین (۲) پرانا - اچھا۔
 پہلا پھل - (۱) مذہب جو سب سے پہلے اُترے جوئی کا پھل (۲) پہلوئی کا پتہ
 پہلا پھول - پہلا عمل۔
 پہلا وار ہے - (۱) مثل ایسی کیا ہے۔ ایسے بہت سے معاملات
 پیش آئیں گے۔
 پہلو - (پہلو - ۱) (۱) مذہب (۲) کرٹ - بفل - گود - بازو (۳) طرف - سمت۔
 (۴) ننگے یا الماس کی کٹی ہوئی چھلی سطح (۵) گوشہ - کنارہ (۶) ہتیکہ - سہارا (۷) ہوکھٹ - کواڑ (۸) ترکیب - نکتہ - ڈھب (۹) رُوبرُو
 سامنے - برابر آگے۔
 پہلو آیا دکرنا - (۱) محاورہ پہلو گرم کرنا۔ عاشق مشوق کا پاس بیٹھنا۔
 پہلو بچانا - (۱) محاورہ کنارہ کرنا۔ علیحدہ ہو جانا۔ چلے نکالنا۔ تدبیر کرنا۔
 پہلو بدلنا - (۱) محاورہ کردیش لینا (۲) دوسرا طرز اختیار کرنا (۳)
 اذابت دینا۔
 پہلو لیانا - (۱) پڑوس آباد کرنا۔ ہمسایہ ہونا۔ قریب آکر رہنا (۲) پاس ہونا
 بفل میں لیٹنا (۳) وصل ہونا (۴) پہلو بہ پہلو بیٹھنا (۵) تکر کے پہلو میں
 دفن ہونا۔
 پہلو بستر سے نہ لگنا - (۱) محاورہ مضطرب ہونا۔ سخت بے چین ہونا۔
 پہلو بہ پہلو - (۱) صفحہ ساتھ ساتھ - برابر۔
 پہلو پر - رُخ پر (۲) حمایت پر (۳) ایک طرف۔
 پہلو پر نہ آنا - (۱) محاورہ کہنا نہ ماننا۔
 پہلو پھیرنا - (۱) محاورہ طریقہ بدلنا۔ روش بدلنا۔
 پہلو پھی کرنا - (۱) محاورہ (۲) کنارہ کشی کرنا۔ کترانا۔ ٹال موٹل کرنا۔ سہارا
 نہ دینا۔ اجتناب کرنا۔
 پہلو چلنا - (۱) محاورہ تدبیر کارگر ہونا۔
 پہلو داب کر بیٹھنا - (۱) محاورہ قریب ہو کر بیٹھنا۔
 پہلو دار - (۱) صفحہ (۲) اگستے والی - کنارہ دار (۳) تیکے دار ہمسائے
 والی جیسے پہلو دار کرسی (۴) دوڑنی بات - رمز کی۔ کتا بیک کی (۵)
 مشتبہ - مشہور۔
 پہلو دیا جانانا - (۱) محاورہ حال ٹھیکہ جانانا۔
 پہلو ڈھونڈنا - (۱) محاورہ موقع تلاش کرنا۔
 پہلو سوچنا - (۱) محاورہ حیلہ ڈھونڈنا۔ تدبیر سوچنا۔
 پہلو گرم کرنا - (۱) محاورہ (۲) آغوش میں بیٹھنا یا بیٹھانا (۳) بفل میں لیٹنا
 یا ٹالنا (۴) ہم صحبت ہونا۔
 پہلو مارنا - برابری کرنا۔ ہمسری کرنا۔
 پہلو میں بیٹھنا - (۱) محاورہ صحبت میں رہنا۔ پاس رہنا۔ قریب رہنا۔
 پہلو نکالنا - (۱) محاورہ تدبیر سوچنا۔ موقع نکالنا۔ ڈھب بنانا۔
 پہلو نکلنا - (۱) محاورہ (۲) ڈھب پانا۔ موقع پانا۔ تدبیر نکلنا (۳) عید معلوم کرنا
 پہلو ان - (پہلو - ۱) (۲) وان (۳) ذہ (۴) گنتی لڑنے والا - گنتی کے فن سے
 واقف (۵) بہادر - دلیر جنگجو (۶) توانا۔ طاقتور - جمع : پہلوئان -
 پہلوئی - (پہلو - ۱) (۲) وان (۳) ذہ (۴) گنتی لڑنے والا - گنتی کے فن سے
 واقف (۵) بہادر - دلیر جنگجو (۶) توانا۔ طاقتور - جمع : پہلوئان -

پہاڑ ہو جانانا - (۱) محاورہ شکل ہونا کھن ہونا۔ دشوار ہونا۔ ڈوبھ ہونا۔
 پہاڑا - (پہاڑا - ۱) (۲) ذہب کا گڑ - ننگے کا قاعدہ - ذہنی ضرب - ذہ
 ضرب دینے ہونے عدد جو لڑائی کو محفوظ کر کے جاتے ہیں۔
 پہاڑا - (پہاڑا - ۱) (۲) ذہب (۳) آئی یا کھیل جسے پختے کھیلنے ہیں (۴)
 پہاڑی - کوبی - پہاڑیا - پہاڑ کا (۵) وہ ہوا جو پہاڑ کی طرف سے آئے۔
 شمالی ہوا (۶) شمالی - تری (۷) پہاڑی بولی۔
 پہاڑی - (پہاڑی - ۱) (۲) ہٹا (۳) ہٹا (۴) ہٹا (۵) ہٹا (۶) ہٹا (۷) ہٹا (۸) ہٹا (۹) ہٹا
 (۱۰) ایک ناگنی - پہاڑی علاقے کا رہنے والا۔
 پہاڑی کوا - (۱) ایک قسم کا نہایت سیاہ اور بھاری آواز والا کوا جو پہاڑوں
 پر ہوتا ہے۔
 پہاڑیے میت کس کے بھات کھایا اور کھسکے - (۱) دشمن اُس وقت
 بولتے ہیں جب کوئی شخص عرض پوری ہوتے ہی چلا جائے۔
 پہچان - (پہچان - ۱) (۲) (۳) واقفیت - شناسائی (۴) تیز - ذرک۔
 سمجھ (۵) نشانی - علامت۔
 پہچاننا - (پہچاننا - ۱) (۲) (۳) شناسخت کرنا (۴) معلوم کرنا - سمجھنا۔
 پہنر - (پہنر - ۱) (۲) تین گھنٹے کا وقفہ۔ دن کا چوتھا حصہ۔ دن رات
 کے چوبیس گھنٹوں کا آٹھواں حصہ۔
 پہنر بچنا - (۱) محاورہ ہر پہر گزرنے پر فوٹ یا گھنٹے کا بچنا۔
 پہنر بیٹھنا - (۱) مذہب خاموش رہنا۔ چپ بیٹھنا۔
 پہرا - (پہرا - ۱) (۲) (۳) ہٹا - (۴) ہٹا - (۵) ہٹا - (۶) ہٹا - (۷) ہٹا - (۸) ہٹا - (۹) ہٹا - (۱۰) ہٹا
 (۱۱) حراست (۱۲) وقت - زمانہ (۱۳) گارڈ (۱۴) گشت۔
 پہرا بدلوانا - (۱) محاورہ دوسرے کے تجویز میں کرنا۔ دوسرے کو چارج
 دینا۔ ایک چوکیدار کو دوسرے کو اپنی جگہ قائم کرنا۔
 پہرا بیٹھنا - (۱) محاورہ (۲) نگرانی ہونا۔ پہرا لگنا۔ چوکی بیٹھنا۔ دربان مقرر
 کرنا (۳) حراست میں لینا۔ مقید کرنا۔
 پہرا چوکی بیٹھنا - (۱) محاورہ محافظ مقرر کرنا۔
 پہرا دینا - (۱) محاورہ (۲) حفاظت کرنا۔ نگرانی کرنا۔ دربان کرنا۔ حراست
 میں رکھنا۔ نگاہ میں رکھنا۔
 پہرے - پہرا کی جمع۔
 پہرے پر کھڑا ہونا - (۱) محاورہ محافظ ہونا۔ نگران ہونا۔ پہرے کی ڈیوٹی پر ہونا۔
 پہرے دار - (۱) مذہب سنتری - چوکیدار - محافظ۔ دربان۔ رکھوالا۔
 پہراوا - (پہراوا - ۱) (۲) (۳) (۴) (۵) (۶) (۷) (۸) (۹) (۱۰) (۱۱) (۱۲) (۱۳) (۱۴) (۱۵) (۱۶) (۱۷) (۱۸) (۱۹) (۲۰)
 پہراؤنی - (پہراؤنی - ۱) (۲) (۳) (۴) (۵) (۶) (۷) (۸) (۹) (۱۰) (۱۱) (۱۲) (۱۳) (۱۴) (۱۵) (۱۶) (۱۷) (۱۸) (۱۹) (۲۰)
 دینے جانے والے جوڑے (۲) پوشاک پہنانے والی عورت۔
 پہل - (پہل - ۱) (۲) (۳) (۴) (۵) (۶) (۷) (۸) (۹) (۱۰) (۱۱) (۱۲) (۱۳) (۱۴) (۱۵) (۱۶) (۱۷) (۱۸) (۱۹) (۲۰)
 گالا (۳) کونا گوشہ (۴) جانب - رُخ - بِل۔
 پہل کار - (۱) مذہب پہل کاری کرنے والا۔
 پہل کاری - (۱) (۲) (۳) (۴) (۵) (۶) (۷) (۸) (۹) (۱۰) (۱۱) (۱۲) (۱۳) (۱۴) (۱۵) (۱۶) (۱۷) (۱۸) (۱۹) (۲۰)
 پہل کرنا - (۱) محاورہ ابتدا کرنا۔ شروع کرنا۔ آغاز کرنا۔

ذو آدری۔ قوت۔ توانائی۔

پہلوی - (پہل - دی) انت - ۱۔ مٹ [پڑانی فارسی زبان۔
پہلی - (پہ - لی) (۱) صفت [ابتدائی - سابقہ - پہلا کی تائید۔

پہلی بسم اللہ ہی غلط - ۱۷ [مشل شروع ہی سے کام خراب - آغاز خراب -
پہلے - (۱) صفت [۱] شروع میں (۲) مقدم - بہتر - عمدہ -

پہلے پہل - (۱) اول اول - شروع میں - ابتدا میں -

پہلے گھر میں تو پیچھے مسجد میں - [۱] مشل [گھر سے پچھے تو مسجد میں دے -
اول خریدی بعدہ درویش۔

پہلے ماری سومیری - [۱] مشل [جو پہلے وار کرے عموماً وہی جیتتا ہے -

پہلے ہی جو سے میں کال کاٹا - [۱] مشل [ملاقات ہوتے ہی ریج دیا -

پہن - (پہ - ہن) (پہن - ف) - ۱۔ مذ [۱] عرض [۲] کشا دگی - فراخی -

پہن - (پہ - ہن) (پہن - ف) - ۱۔ مذ [۱] دودھ جو محبت کے جوش سے ماں کی چھاتیوں
میں بھرائے -

پہنا - (پہ - نا) (ف) - صفت [عرض - چوڑا - فراخ - بڑے پتے کا -

پہنا - (پہ - نا) (نا) (۱) - مص [زیب بدن کرنا - لباس یا زیور سے
آراستہ کرنا -

پہناوا - (پہن - نا) (۱) - مذ [۱] لباس - پوشاک [۲] زیور - گہنا [۳] اڑھنے
پینے کا رواج اور طریق -

پہنائی - (پہ - نا) (ای) (ف) - ۱۔ مٹ [۱] چوڑائی - پنا - عرض - فراخی -

پہنچ - (پہ - ہنچ) (۱) - مٹ [۱] رسائی - وصل - باریابی - دسترس [۲] رسید -
اطلاع - خبر - وصولی - آمد -

پہنچی - (پہ - ہن - چا) (۱) - مذ [۱] کلائی - ساعدہ [۲] آیا - بلا - وصولی ہوا [۳]
باریاب ہوا -

پہنچا ہوا - (۱) - صفت [۱] رسا - باریاب [۲] وصول شدہ - آیا ہوا [۳] خدا
رسیدہ - اللہ والا [۴] آگاہ - باخبر [۵] تجربہ کار -

پہنچانا - (پہ - ہن - چا) (۱) - مص [۱] داخل کرنا - باریاب کرنا [۲] بھیجنا -
لے جا کر دینا -

پہنچنا - (پہ - ہنچ - نا) (۱) - مص [۱] رسائی پانا - باریاب ہونا - داخل ہونا -
[۲] راستہ طے ہونا [۳] ملنا - آنا - جانا [۴] واقع ہونا - خبردار ہونا -

[۵] سوچنا - غور کرنا [۶] داخل ہونا - تمام کرنا [۷] پختہ کار ہونا [۸]
خدا رسیدہ ہونا [۹] سرایت کرنا [۱۰] تلو پانا [۱۱]

تعلق کرنا -
پہنچی - (پہ - ہن - چی) (۱) - مذ [۱] کلائی [۲] ایک زیور جو کلائی میں پہنا
جاتا ہے [۳] پہنچ گئی - وصول ہو گئی -

پہننا - (پہ - ہن - نا) (۱) - مص [۱] کپڑا بدن پر ڈالنا [۲] زیور بدن پر سجانا -
[۳] کسی چیز کا بدن کے کسی حصے پر استعمال کرنا - جیسے لاپہننا -

پہنٹی - (پہ - ہنٹی) (۱) - صفت [۱] جو بڑھتی تھی چیرتے وقت شکاف کھٹلا
رکھنے کے لیے شکاف میں رکھتے ہیں -

پہنٹیا - (پہ - ہنٹی) (۱) - مذ [۱] حلقہ پتھر - چرنی [۲] گاڑی کا وہ حصہ جو زمین
پر چلتا ہے -

پر چلنا ہے -

پہنٹیا پھری ناک - (۱) - مٹ [پہنٹی ہونے ناک -

پہنٹی - (پہ - ہنٹی) (۱) - مٹ [۱] بھارت - چینان - مٹ -

پہنٹی بوجھنا - پہنٹی کا صل بتانا - چینان صل کرنا -

پہ

پھا پکٹنی - پھا پھا کٹنی - (پھا - پاکٹ - نی) (۱) - مٹ [۱] پھا - پھا - کٹ - نی (۱) - صفت [۱]
بنایت عینار اور چالاک عورت - دلالت کٹنی -

پھاٹ - (۱) - مٹ [۱] عورت داروں میں مٹانے کی قسم - لگان یا مالگداری کی قسم -

پھاٹک - (پھاٹک - ۱) - مذ [۱] بڑا دروازہ - محراب [۲] کاجی ڈانس - باڑ -
احاطہ - آوارہ مویشیوں کے بند کرنے کا مکان [۳] کپڑا جہاں مدھی اور
مذا طیبہ کھڑے کیے جاتے ہیں -

پھاٹک بندی - (۱) - مٹ [۱] قید - حراست - گرفتاری -

پھاٹک دار - (۱) - مذ [۱] ڈیوڑھی بان - محافظ - دروازے کا پہرہ دار - پاسبان -
پھاڑ - (۱) - مذ [۱] شکاف - چاک - کھوج - دراڑ [۲] پھاڑنا کا امر [۳]

مکھوڑا - پھاٹک -

پھاڑ کھانا - (۱) - مذ [۱] کٹ کھانا - بھینچوڑنا - چیر ڈالنا [۲] بہت غصے
ہونا - ناراض ہونا - بھینچلانا [۳] سخت ناگوار بات کہنا -

پھاڑ کھانے کو دوڑنا - (۱) - مذ [۱] کٹنے کو دوڑنا [۲] بہت بھینچلانا
غصے میں بھڑک اٹھنا [۳] بنایت بد مزاجی سے پیش آنا -

پھاڑ کھاؤ - (۱) - صفت [۱] پھاڑ کھانے والا - درندہ [۲] غصیل - بد مزاج
[۳] خنخار - جلاؤ -

پھاڑنا - (پھاڑنا - ۱) - مص [۱] چیرنا - شق کرنا [۲] بھینچوڑنا - کاشا [۳] قطع کرنا
بیرونتا - کترنا [۴] کھونا - بھینچلانا - جیسے منہ پھاڑنا [۵] انگ کرنا - جھاکرنا
فرق ڈالنا -

پھاگ - (۱) - مذ [۱] چھانگ کا ہتوار - ہولی [۲] خوشی - سرور - آمد - عیش [۳] بے فکری
راگ - رنگ - ہولی کے کھیل تماشے -

پھاگ کھیلنا - (۱) - مذ [۱] ہولی منانا - خوشی کرنا [۲] سرور ہونا - عیش
اڑانا - لطف اٹھانا - رنگ رلیاں منانا -

پھاگن - (پھاگن - ۱) - مذ [۱] ہندوؤں کے سال کا گیارہواں مہینہ - اخیر فروری
سے وسط مارچ تک کا زمانہ -

پھال - پھالا - (پھا - لا) (۱) - مٹ [۱] زمین جوتنے کا آد جو بل میں لگایا
جاتا ہے [۲] پھالیر سپاری -

پھالی - (پھا - لی) (۱) - مٹ [۱] نوکرا کر جو زمین کھودنے کے لیے بل میں لگاتے
ہیں [۲] شیر خوار بچے کا تھن ڈھانپنے کا کپڑا [۳] (۱) -

پھان - (۱) - مذ [۱] پھندا -

پھانا - (پھا - نا) (۱) - مذ [۱] وہ کڑی جو موچی جوڑنا کٹا کرنے کے لیے رکھتے
ہیں [۲] وہ کڑی یا لوہے کی بڑی کیل جو آہ کٹش یا کڑا ہارے کڑی چیرنے

پھاؤڑا بجانا - (۱- محاورہ) ۱) پھاؤڑے سے آواز پیدا کرنا (۵) کھدائی کرنا - ڈھانا - گرانہ -
پھاؤڑا سے دانست - (۱- مذ) بڑے بڑے دانست - بد ذریعہ اور
مُنہ سے باہر نکلے ہوئے دانست -
پھاؤڑا نہ کدال بڑا کھیت ہمارا - (۱- مثل) گرہ میں کچھ نہ ہو اور
شینیاں بجانا (۲) وہ کام دتے لینا جو ہونے کے (۳) شینیاں بجانا -
پھاؤڑے کے نام گل صفا نہیں جانتے - اگت کے نام بے نہیں
جانتے - ناواقف ہیں - جاہل مطلق ہیں - بالکل بے سمجھ ہیں -

پھاؤڑی - (پھا - اُڑی) (۵- ۱- مٹ) (۱) چھوٹا پھاؤڑا (۲) ڈنٹر پیٹے وقت
اتنے میں رکھنے کی کلہی (۳) لید پٹانے کے لیے کلہی کا بنا ہوا تختہ جس
کے چھ کپڑوں کے لیے بانس لگا ہوتا ہے (۴) بیراگن - فخر نگہ جوگیوں
کی میڑھی کلہی -

پھاہا - پھاہا - (پھا - ہا) (۵- ۱- مذ) (۱) کپڑا جس پر مرہم رکھ کر زخم پر
چپکاتے ہیں -

پھیب - (۵- ۱- مٹ) زریب - زینت (۲) پھیب - (۳) تناسب - موزوں
(۴) حش - خوبصورتی -

پھیتا - (پھیب - تا) (۵- صفت) موزوں - زیبا - سجتا - مناسب - لائق -

پھیتتی - (پھیب - تی) (۵- ۱- مٹ) مثال - منصفہ تیز تشبیہ - ظریف نہ
چشت فقرو -

پھیتی اڑانا - (۱- محاورہ) ہنسی اڑانا - مذاق کرنا -

پھیتی سوجھنا - (۱- محاورہ) مناسب ظریفانہ تشبیہ کا خیال میں آنا -

پھیتی کہنا - (۱- محاورہ) ظریفانہ تشبیہ دینا -

پھیتی ہونا - (۱- محاورہ) بے ساختہ فقرہ چست ہونا -

پھندانہ چھندا - (پھ - پد - نا) (پھ - پد - نا) (۵- مٹ) (۱) چھندا (۲) کثرت سے
پاس پاس چھینیاں نکلنا -

پھنگنا - (پھب - بک - نا) (۵- مٹ) بڑھنا - اگنا - نشوونما پانا (۲) موٹا تازہ ہونا -

پھین - (پھب - پھب) (۵- ۱- مٹ) زرباش - سجادت - آرائش - تناسب - چب -

پھینا - (پھیب - نا) (۵- مٹ) (۱) سبت - زریب دینا - جھلاکنا (۲) جھک ہونا -

پھینا - (پھیب - پا) (۵- ۱- مذ) چھوٹا کھانا - باب کی بہن کا خاندانہ چھوٹا پھاؤڑا -

پھیت - (پھیب - پھیب) (۵- ۱- مذ) (۱) زریب - کر - دفنا - شور وغل - فقرو وشار -

پھیت باز - (۱- صفت) مکارہ - فریبی - فساد بی -

پھیت بازی - (۵- ف - مٹ) مکارہ - جلاک - فقرو انگیزی - عیاری -

پھیت بانہی - جھکا اور عورت - مکارہ - فسادن -

پھیت دالے - (پھب - پڑ - دلا لے) (۵- ۱- مذ) (۱) کر - فریب - فند (۲) جھوٹی
خوشاد - عاہری باتیں -

پھیتے - (پھیب - پڑے) (۵- ۱- مذ) جھوٹی خوشاد کی باتیں - فریب کی باتیں -

پھیتیں - (پھیب - پھیب) (۵- صفت) (۱) چھوٹا ہوا - جھدا - مرنا - فریب (۲) وہ چیز
جو اندر سے پولی اور خالی ہو -

پھیتا - (پھیب - سا) (۵- صفت) (۱) چھوٹا ہوا - پولا - اندر سے خالی (۲)

پھیکا - بد مزہ -

پھاٹے میں دراؤں کا کرنے کے لیے اس میں رکھتے ہیں - فاندہ - پتھر -
پھاٹ - (۵- ۱- مذ) گاؤں کا افسر -

پھاٹا - (۵- ۱- مٹ) شاخ -

پھاٹج - (۵- ۱- مٹ) بند - ہیکل - پھانسی -

پھاٹجنا - (پھاٹج - نا) (۵- مٹ) ٹھوٹے ٹھوٹے کرنا - فقیر قہر کرنا -

پھاٹہ - (۵- ۱- مذ) (۱) بال یا تانت کا پھندا (۲) دام - جال - پھندا (۳) پھلانگ
کلاج - پھلانگ - جست - کود -

پھاٹہ (لگانا) مارنا - (۱- محاورہ) (۱) دام پھیلانا - جال پھانا - پھندا لگانا -

(۲) فریب کرنا - دھوکا دینا (۳) کودنا جست کرنا - پھلانگنا - زخند لگانا -

پھاٹہ - (۵- ۱- مذ) پھندا - جال - کندہ -

پھاٹہ - (پھاٹہ - نا) (۱) مٹ (۲) کودنا - پھلانگ - جست کرنا (۳) پھندا لگانا (۳)
زہار زکا مادہ پر پڑھنا -

پھاٹہ - (پھاٹہ - دی) (۵- ۱- مٹ) گتوں کا گٹھا -

پھاٹس - (۵- ۱- مذ) کلہی یا بانس یا پان کا ریشہ جو جسم میں چبھ جاتا ہے (۲)
رد معانی تکلیف (۳) غش - ڈکھ - رنج - اندیشہ - فکر -

پھاٹس ٹھکانا - (۱- محاورہ) پھاٹس پھیننے سے درد ہونا (۲) کسی سے دشمنی کی
وجہ سے بے مینہ ہونا -

پھاٹس لانا (لینا) - (۱- محاورہ) (۱) دھوکا دے کر قابو میں کرنا - پھینسا لانا -
تیج میں لانا -

پھاٹس لگنا - (۱) تھکا چھ جانا - ریشہ گرا جانا (۲) تکلیف ہونا -

پھاٹس مار دینا - (۱- محاورہ) بات یا کام میں سرج کر دینا - کسی کو نقصان پہنچانا -
پھاٹسا - (پھاٹس - نا) (۵- مٹ) (۱) گرفتار کرنا (۲) فریب دینا - دھوکا کرنا (۳)
قابو میں کرنا (۴) مجبور کرنا - عاجز کرنا - بیچ میں لانا - داؤد کرنا (۵) کوشش
میں ڈول ڈالنا (۶) شریک جرم کرنا - الزام لگانا -

پھاٹسی - (پھاٹس - سی) (۵- ۱- مٹ) (۱) کندہ - پھندا - بند (۲) گردن میں رسی ڈال
کر لگا گھونٹنے کا عمل میزائے موت - سولی -

پھاٹسی پانا - (۱- محاورہ) سولی پڑھنا - پھاٹسی کے ذریعے سے ہلاک کیا جانا -

پھاٹسی کھڑی ہونا - (۱- محاورہ) (۱) پھاٹسی کا سامان تیار ہونا - پھاٹسی دینے
کے لیے سستون گرا کرنا (۲) پھاٹسی کا وقت آنا -

پھاٹسی کی کھٹی - کلہی کا وہ سستون جس پر پھاٹسی دینے کا پھندا لگا ہوتا ہے -
پھاٹسی (لگنا) ہونا - سولی لگنا - سزائے موت ہونا - پھاٹسی دیا جانا -

پھاٹک - (۵- ۱- مٹ) قاش مٹاؤ - (پھیل کا)

پھاٹکوٹ - پھاٹکوٹا - (پھاٹک - کوٹ) (پھاٹک - ڈا) (۵- ۱- مذ) (۱) بانکا ترچھا (۲)
مضبوط (۳) بیادرد -

پھاٹکنا - (پھاٹک - نا) (۵- مٹ) (۱) سفوت یا دانہ - ایک دم مُنہ میں ڈال لینا -
(۲) جلد کھانا (۳) جلد جھلنے کرنا (۴) زیادہ خرچ کرنا (۵) جلد جلد ہونا -

(۶) چھوٹ ڈالنا (ق) (۷) جھانک (ق) -

پھاٹکی - (پھاٹکی - کی) (۵- ۱- مٹ) (۱) سفوت یا دانہ جو ایک دفعہ چھانکا جائے -
(۲) پھیل کا ٹکڑا یا پھاٹک (۳) اعتراض (۴) جھوٹی دلیل (۵) دھوکا - فریب -
پھاٹڑا - (پھاٹڑا - ڈا) (۵- ۱- مذ) کھلان - پیلو - مٹی کھودنے کا آہنی آلہ -

پھدک - (پھد - دک) (۱-۵) مذ - جوش - آبال۔

پھدکنا - (پھد - دک - نا) (۳-۵) مصل (۱۱) اُپھنا - کودنا - چھاننا (۷) خوش ہونا مرہر ہونا پھدکی - (پھد - کی) (۵-۱) مصل (۱) ایک چھوٹی سی چیز یا کانا م جو پھدکتی پھرتی ہے۔

پھدنا - (پھد - نا) (۵-۱) مذ - ناچنے - دیوار یا کنڈیں میں پھد جس کے سہارے آڑیا پڑھا جائے۔

پھدنا - (پھد - نا) (۵-۵) صفت (۱) بیٹا - وہ جو تاجس کی لڑی بیٹی جو (۲) وہ آدمی جو پاؤں رکڑ کر لنگڑا کر پلے یا دہ شخص جو چلتے دقت آئے ترچھے پاؤں رکھے۔

پھدکی - (دق) - بچھے - اخیر۔

پھد - (ڈر) (۱) دوبارہ - بعد ازاں - اس کے بعد اور آگے (۲) تب - تو (۳) تاہم۔

سیر کر - گھوم - پھرنانا - امر۔

پھر بھی موچی کے موچی سے۔ [اٹل] کچھ ترقی نہیں کی۔ حالت بدستور ہی پھر بے گھوڑے ہیں سے۔ [ش] اس آدمی کی نسبت ہوتے ہیں جو ادھر بات کہے اور ادھر گر جائے۔

پھر پھر - پھر پھر سے - بار بار۔

پھر جانا - (۱) محاورہ (۱) لوٹ جانا - واپس ہو جانا۔ پلٹ جانا (۲) مڑنا - لگانا۔ ٹیڑھا ہونا (۳) قائم نہ رہنا۔ بیوفائی کرنا (۴) ہو کر چلا جانا۔ چکر لگا جانا۔ گردش کرنا گھومنا (۵) حالت غیر ہو جانا (۶) باقی ہونا۔ محض ہونا۔

پھر سے - (۱) از سر نو - نئے سرے سے۔

پھر ہو - (کھلتا نہیں) دوبارہ کہو - دیکھو تو کیا ہوتا ہے۔

پھر کے نہ دیکھنا - (۱) محاورہ (۱) بے بردانی ظاہر کرنا (۲) بخیرے دکھانا۔

پھر نہ کہنا - (۱) محاورہ (۱) الزام نہ دینا - شوہ نہ کرنا۔

پھر - (۱-۵) مصل (۱) جانور کے اٹنے کی آواز۔

پھر سے اڑ جانا - (۱) محاورہ (۱) جھٹ اڑ جانا۔ فزا اڑ جانا۔ یک دم اڑ جانا۔

پھر - (۱-۵) مذ - وہ لبیا تختہ جو شہیر پیرنے سے نکلتا ہے۔

پھر ٹا پھرنانا - (۱) محاورہ (۱) آواز سے اڑنا - تیزی سے اڑنا (۲) جلدی جلدی پڑنا (۳) مریں مارنا۔

پھر ارا - (پھد - را - را) (۱-۵) مذ - خشک - سٹو کھا۔

پھر انا - (پھد - نا - نا) (۵-۵) مصل (۱) گشت کرنا۔ گھمانا۔ چکر دینا۔ سیر کرنا (۲) حیران کرنا۔ پھیرے کرنا (۳) واپس کرنا۔ ناپسند کرنا (۴) بگاڑنا۔ رنجیدہ کرنا۔

پھراؤ - (پھد - او - او) (۵-۱) مذ (۱) وہ بال جس کی واپسی کا قرار ہو (۲) پھرتا - لوٹنا - واپس ہونا۔ مڑنا۔

پھرائی - (پھد - را - ای) (۵-۱) مصل (۱) والسی۔ ٹوٹانے کا ہر زمانہ۔ والسی کا ہونانہ۔ پھر پھرائی - (پھر - پھد - را - نا) (۵-۵) مصل (۱) بنا لینا۔ ہوا میں بوکت کرنا۔ اڑنا تینش کرنا۔ پھر پھری - (پھر - پھد - ری) (۵-۱) مصل (۱) کپکپا ہٹ کیلی۔ پھر پھری - لڑھ پھری پھر پھند - (پھر - پھند) (۵-۱) مذ (۱) داؤ - بیج (۲) جھگڑا - بھگڑا۔ تقصیر (۳) فریب کر۔ جیل۔ سکاری۔

پھر پھندی - (پھر - پھن - دی) (۱-۵) مذ - بیج کرنے والا - داؤ چلانے والا۔

پھراؤ - فریبی۔ چال باز۔ سٹکار۔

پھر پھیندنا - (پھر - پھیند - داؤ) (۵-۱) مذ - حظل۔ اندرائن۔ ہنایت کرنا۔ پھیل۔

پھرت - (پھد - رت) (۵-۱) مذ (۱) حرکت۔ گردش۔ جنبش (۲) چلت۔ چکر لینا۔ ناچنا۔ گھومتے کی گردش۔ گھوڑے کا پھرتا۔

پھرتا - (پھرتا - تا) (۵-۱) مذ (۱) پھراؤ (۲) پھرت (۳) پھرتا۔ دلائی کیشن۔

پھرتی - (پھرتی - تی) (۵-۱) مصل (۱) چلائی۔ چستی۔ تیزی۔

پھرتی کرنا - کسی کام میں چستی دکھانا۔ جلدی کرنا۔ چالاکی کرنا۔ چابک دستی دکھانا پھر تیلنا - (پھرتی - لا) (۵-۵) صفت (۱) چست۔ چالاک۔ تیز۔ جلدی سے کام کرنے والا پھر چیا - پھر چیا - (پھر - چا - پھر - چھا) (۵-۱) مذ - فیصلہ۔ آخری حکم۔ تجویز (۲) صفت (۱) صاف۔ نزل۔ کھرا (۳) پھنا۔ پھنا۔ کھلا۔ جیسے بادل پھر چھا۔

پھر سا - (پھر - سا) (۵-۱) مذ (۱) کڑا۔ پھاؤڑا۔ تیشہ۔ کھاڑی۔

پھر کی ڈنڈ - (پھر - کی - ڈنڈ) (۵-۱) مذ (۱) ڈنڈ (۲) باؤ (۳) جو ورزش کے باعث پھر سے ہونے ہوتے ہیں۔

پھر کی - (پھر - کی) (۵-۱) مصل (۱) چکئی۔ گھرنی۔ گئی۔ ریل (۲) چکر کھانے والی گھومتے والی۔ ایک گھومتے والا گھولنا۔

پھر کی کی طرح پھرتا - (۱) محاورہ (۱) ایک جگہ یا ایک حال پر قرار نہ ہونا۔ پھرتا - (پھرتا - تا) (۵-۵) مصل (۱) پھلنا۔ گھومتا۔ پہل قدمی کرنا۔ سیر کرنا (۲) گردش میں آنا۔ چکر لگانا (۳) تبدیل ہونا۔ بدل جانا (۴) متوجہ ہونا (۵) برازی کی حالت رخ کرنا (۶) ٹیڑھا ہونا (۷) گھومنا۔ پھلنا (۸) چکر آنا۔

پھر پھری - (پھد - ری) (۵-۱) مذ - پانے کے بعد خشک ہونے والی۔

پھر پھری - (پھد - ری) (۵-۱) مصل (۱) سیر۔ ڈھال (۲) روک۔ پھاؤ۔ مخالفت۔

پھر پھرا - (پھد - رے - را) (۱-۵) مذ (۱) پھرا۔ پرجم۔ نشان (۲) تقریباً خشک پھر پھری - (پھد - ری) (۵-۱) مصل (۱) پھر پھری - لڑھ کیلی۔ بدن کے رونگٹے پھرتے ہو کر جسم کی حرکت (۲) روٹی کا پھویا۔ روٹی کا پھاؤ (۳) جوش۔ اُٹنگ۔ پھر۔ موج۔

پھر پھری آنا - (۱) محاورہ (۱) خوف یا سردی کے باعث رونگٹے پھرتے ہو کر بدن کا ٹپ جانا۔

پھر پھری لینا - (۱) محاورہ (۱) جوش میں آنا۔ اُٹنگ پیدا ہونا۔ موج میں آنا (۲) روٹی کا پھاؤ لینا۔

پھر - (۵-۱) مصل (۱) قمارخانہ۔ جو اکیلے کا اڈا (۲) وہ جگہ جہاں سامان رکھ کر فروخت کرتے ہیں (۳) گاڑی کا کم۔ بیو۔ بانس (۴) توپ کی گاڑی۔ چورتا یا پتائی جس پر توپ رکھ کر چلائی جاتی ہے۔

پھر باز - (۱) صفت (۱) جواہری۔ قمار باز۔

پھر پھر رکھنا - (۱) محاورہ (۱) پھر پھر لگانا۔ بازی لگانا۔ داؤ لگانا۔

پھر پھیلنا - (۱) محاورہ (۱) جوا ہونا۔ قمار بازی ہونا۔

پھر پھر پھر کر رہ جانا - (۱) محاورہ (۱) تھوڑی دیر توپ کر رہ جانا۔

پھر پھر انا - (پھر - پھد - نا) (۵-۵) مصل (۱) پھنا۔ لوٹنا۔ بے چین ہونا۔ مضطرب ہونا۔ بے قرار ہونا۔ پھر گنا (۲) بدل کر پھینگانا۔

پھر پھر جھٹ - (۱) مصل (۱) پر مارنے کی آواز۔ اضطراب۔ بے چینی۔

پھر پھر پھریا - (۵-۵) صفت (۱) چالاک۔ ہوشیار۔ تیز۔ جلد باز۔ بہت باتیں بنانے والا۔

پھر پھرا - (۱) مذ (۱) کھوارا۔ پھیل۔

پھر لک - (پھد - لک) (۵-۱) مصل (۱) بے قراری۔ اضطراب۔ بے چینی۔ تڑپ۔

(۲) پھڑک - پیش (۳) پھنکوں کی حرکت (۴) دھڑکن - تڑپ۔
 پھڑک اٹھنا - (۱) محاورہ) بے قرار ہونا۔ بے تاب ہونا (۲) کوئی اچھی بات دیکھ کر یا سُن کر متاثر ہونا (۳) عاشق ہونا۔
 پھڑک جانا - (۱) محاورہ) لاٹ جانا۔ تڑپ جانا۔ بے چین ہو جانا یا مضطرب ہو جانا۔ بے قرار ہو جانا (۲) عاشق ہو جانا۔ فریفتہ ہو جانا (۳) مشتاق ہونا۔
 پھڑکنا - (پھڑ - کا - نا) - (۱) مص - (۲) بے چین اور بے قرار کرنا۔ مضطرب کرنا۔ تڑپانا۔
 پھڑک پھڑک کر - سخت تکلیف اٹھا کر - اٹھ پاؤں مار کر۔
 پھڑکنا ہوا - (۱) صفت) چلبلا - شوخ - برجستہ۔
 پھڑکن - (پھڑکن - ا - مٹ) تڑپ - بے چینی۔
 پھڑکن کی اولاد - بڑی تنہا کی اولاد۔ نہایت آرزوؤں سے پائی ہوئی اولاد۔
 پھڑکن - (پھڑ - کن - نا) - (۱) مص - (۲) بے چین ہونا۔ بے قرار ہونا۔ مضطرب ہونا۔ تڑپنا۔ ترسنا (۳) عاشق ہونا۔ فریفتہ ہونا۔ آرزومند ہونا۔ خواہش کرنا۔ چاہنا۔ تنہا کرنا (۴) دھڑکن - حرکت کرنا۔
 پھڑکی - (پھڑ - کی - ا - مٹ) (۱) موٹا پردہ (۲) حیدرناصل۔
 پھڑوانا - (پھڑ - وا - نا) - (۱) مص - (۲) پھاڑنا کا متعدی متعدی (۳) بے ترتیب کرنا۔
 پھڑی - (پھڑی - ا - مٹ) پھڑوں کا ڈھیر - ایک گڑ جوڑا ایک گڑا سچا ، گڑ لبا پھڑوں کا ڈھیر۔
 پھڑیا - (پھڑیا - ا - مٹ) (۱) پھڑی لگانے والا۔ بڑے فروش۔ متفرق اشیاء بیچنے والا (۲) وہ شخص جس کے مکان میں بچا ہوتا ہو۔
 پھڑیا - (پھڑیا - ا - مٹ) چھوٹا پھوڑا پیسی۔
 پھس - (پھس - ا - مٹ) (۱) شرم جیفت - افسوس - بیچ (۲) زیر لب آواز۔
 پھس - (۱) پھسکی کی آواز (۲) ہلک اور خفیف آواز۔
 پھس پھس - (۱) ہلکی آواز (۲) کاناپھوسی (۳) چلبلا پن۔ زبانی۔
 پھس پھسنا - (۱) صفت) مذ) - (۱) بُلُک - طاقم - نرم (۲) پھیکا - بد مزہ۔
 پھس پھس کر بیٹھ جانا - (۱) محاورہ) کچی دیوار کا پانی کے اثر سے بیٹھ جانا۔
 پھس پھسنا - (۱) سرگوشی کرنا۔ کاناپھوسی کرنا۔ کان میں باتیں کرنا (۲) چنچل رکھنا (۳) بات سُن کر ضبط نہ کرنا۔ جگہ جگہ بیان کرتے پھرنا۔
 پھسا کو - (پھس - کو - ا - مٹ) مذ) خواب تباکو۔
 پھساوا - (پھس - وا - ا - مٹ) مذ) اُلجھاؤ۔ جھگڑا۔
 پھسٹی - (پھس - ٹی - ا - مٹ) (۱) صفت) (۲) آخری - پھڑا ہوا (۳) مارا ہوا شکست خوردہ۔ پست۔ گھٹا ہوا (۴) ناقص۔ کم درجہ (۵) محروم۔
 پھس پھس - (پھس - پھس - ا - مٹ) کھس پھس - کاناپھوسی - چپکے چپکے باتیں۔
 پھسکارا - (پھس - کا - ا - مٹ) صفت) پھسکار۔
 پھسکڑا - (پھس - کڑ - ا - مٹ) (۱) مذ) چار ذرا فریختنے کی حالت۔ آلتی پالتی مار کر بیٹھنے کی حالت۔
 پھسکڑا مار کر بیٹھنا - (۱) محاورہ) پھیل کر بیٹھنا۔ بے تکلف ہو کر بیٹھنا۔ چار ذرا فریختنا۔
 پھسنا - (پھس - نا - ا - مٹ) (۱) صفت) (۲) دھسکا۔ بیٹھ جانا (۳) بیٹھ جانا۔
 پھسکنا - (پھس - کنا - ا - مٹ) (۱) صفت) چنچل کھانا (۲) چنے کا آہستہ آہستہ رونا۔

پھسکی - (پھس - کی - ا - مٹ) یاد - گزردہ - سرج - یاد کی ہلکی آواز۔
 پھسل پھسنا - (۱) محاورہ) گر پڑنا۔ (۲) فریفتہ ہو جانا۔ کسی پر مائل ہو جانا۔
 پھسلنا - (۱) محاورہ) مضامند کر لینا۔
 پھسلنا - (پھس - لانا - ا - مٹ) (۱) صفت) کھسکانا۔ ریشمانا۔
 پھسلنا - (پھس - لانا - ا - مٹ) (۱) صفت) (۲) بھلا نا (۳) دھوکا دینا۔ فریب کرنا (۴) راعب کرنا۔ متوجہ کرنا (۵) راضی کرنا۔ منانا۔
 پھسلاوا - (پھس - لاوا - ا - مٹ) (۱) بھلاوا۔ بہکاوا (۲) دھوکا۔ فریب جھانسر۔
 پھسلن - (پھس - لن - ا - مٹ) (۱) صفت) کھسکن - (۲) پاؤں پھسلنے کی جگہ۔
 پھسلنا - (پھس - لن - ا - مٹ) (۱) صفت) (۲) لٹکانا۔ لغزش۔ زبٹنا (۳) بہکنا (۴) راعب ہونا (۵) زبٹناؤں - وہ چیز جس پر سے پھسل جائیں۔
 پھسلیندا - (پھس - نین - ا - مٹ) (۱) ذ) ڈھولوں پھرتیا چٹان (۲) (۳) بچوں کا ایک کھیل (۴) دریا یا تالاب کے پھسلوان کنارے سے پھسلنا۔
 پھسینڈا - (پھس - سین - ا - مٹ) (۱) بڑوار۔ بسا نڈا۔ بسا ہوا (۲) نامعقول بات کہنے والا۔ غیر متوجہ۔
 پھسینڈی - (پھس - سین - ا - مٹ) (۱) بڑوار۔ بسا نڈی۔ بسی ہوئی (۲) نامعقول۔ پھو پڑا (۳) بے ہودہ گو عورت۔
 پھس - (پھس - ا - مٹ) (۱) صفت) (۲) بیچ (۳) حسرت۔ لغت۔ لعنت۔
 پھک - (پھک - ا - مٹ) (۱) کسی چیز کے دفعتاً کھٹنے اڑنے یا نکلنے کی آواز۔
 پھک پھک - (۱) صفت) (۲) جھٹ۔ جرت۔ فوراً۔ جلدی۔ یک دم۔
 پھک دے سی - پھک دینی - پھک سے - دھک سے۔ جلدی سے۔
 دفعتاً۔ یک دم سے۔ یکایک۔
 پھکا پھسکا - (پھسکا - ا - مٹ) (۱) محاورہ) آگ یا بخار یا عشق کی گرمی سے جلا جانا۔
 پھکڑا - (پھک - کڑ - ا - مٹ) (۱) مذ) ہزلیات۔ گالی گونج۔ فحش۔ چڑ۔ گپ۔
 منقلاط۔
 پھکڑ باز - (۱) صفت) ہزلیات بیچنے والا۔ گالی گونج کرنے والا۔ لاشعز گو۔
 پھکڑا لڑنا - (۱) محاورہ) باہم ہزلیات میں گفتگو کرنا۔ گالی گونج میں سہارہ کرنا۔
 گپ شب لڑانا۔ فحش باتیں کرنا۔
 پھکڑا ہونا - (۱) محاورہ) نہایت بے تکلفی ہونا۔ بیہودہ ہنسی ہونا۔
 پھکڑی - (پھک - ڈی - ا - مٹ) (۱) بد اخلاقی سے پیش آنے کا فعل (۲) بد تہذیبی (۳) بے حرقی۔
 پھکنا - (پھک - نا - ا - مٹ) (۱) مذ) (۲) پشاب کی پھسلی (۳) جھلنا۔ جھلسنا (۴) داکھ ہونا (۵) دارغ لگنا (۶) سوکھ جانا (۷) غارت ہونا (۸) حسد ہونا۔
 غمٹہ کھانا۔
 پھکنی - (پھک - نی - ا - مٹ) (۱) دھونکی۔ پھونک کر آگ جلانے کا آلہ۔
 پھکنیت - (پھک - نیت - ا - مٹ) (۱) صفت) پٹا کھیلنے والا۔ گنکا باز۔ کڑی سے لڑنے والا۔ گد کا پھری کا فن جاننے والا۔ جالاگ۔
 پھکنی - (پھک - نی - ا - مٹ) (۱) صفت) (۲) پھنکے کا پھری کا ہنر۔
 پھکنی - (پھک - ٹی - ا - مٹ) (۱) مذ) ایک کھیل۔
 پھکنوا - (پھک - وا - ا - مٹ) (۱) مذ) (۲) بولی کی خوشی کا انعام (۳) بسنت۔ بولی۔

پھلکی - (رق - صف) مدغم۔

پھل - (۱-۵) [مذ] (۱) شرمیوہ - فردٹ کسی درخت یا پودے کی پیداوار (۲) فال - شگون - استدادہ (۳) نتیجہ - حاصل - نفع (۴) نسل - اولاد - (۵) دھار - نوک - اٹی (۶) ابر - حوض (۷) بخشش - انعام (۸) پھالا - (۹) خار ج قسمت - حاصل قسمت تقسیم کے سوال کا جواب -

پھل آنا - (۱) محاورہ (۲) پھل پیدا ہونا۔

پھل اترنا - (۱) محاورہ (۲) پھل تیار ہونا۔

پھل بھٹول - (۱) مذ (۲) پھل بوجھنے کا عمل۔

پھل پات - (۱) مذ (۲) میوہ - ترکاری - پھل پھلاری۔

پھل پانا - (۱) محاورہ (۲) صلا پانا - بدلہ ملنا (۳) میوہ لاکھ آنا - ثمر ملنا (۴) بھلائی پانا - کیے کی سزا پانا۔

پھل پھلاری - (۱) (مشت) ترکاریاں - پھل پھول سبزی ترکاری - انواع و اقسام کے میوے - قسم قسم کی ترکاریاں۔

پھل تار - (۱) مذ (۲) تار کا مادہ درخت۔

پھل چلنا - (۱) محاورہ (۲) پھل کا پک کر بازار میں آنا۔

پھل دار - (۱) صف (۲) بار بار در - فردار - میوہ دار - پھل ہوا - پھل لانے والا۔

پھل کھانا آسان نہیں - (۱) (مشت) کامیابی محنت کے بغیر نہیں ہوتی۔

پھل لگنا - (۱) محاورہ (۲) پھل آنا - بار آور ہونا (۳) نتیجہ نکلنا (۴) توار یا جاؤ لگ۔

پھل ملنا - (۱) محاورہ (۲) نتیجہ حاصل کرنا - جملہ پانا - ثمرہ پانا (۳) کیے کی سزا پانا - عوض پانا۔

پھلا - (پھل - لا) (۱-۵) [مذ] (۱) کھنی کی کھیل (۲) بھولا - ٹینٹ - جالا - پھلی۔

آنکھ کی کھلی (۳) پھولا ہوا۔

پھلا پھولا - (پھل - لا) بھولا (۱-۵) [صف] (۱) بیسبے والا - بھگوان - قسمت والا صاحب اولاد - صاحب مال و دولت (۲) بھرا پڑا - آباد و شاد - خوش و شرم (۳) سرسبز و شاداب - ہرا بھرا (۴) بسا ہوا۔

پھلا مسرا - (پھل - لاس) (۱-۵) [مذ] پھلاؤ - دھوکا - فریب - جھلسانہ دم - کر۔

پھلا نا - (پھل - لا) (۱-۵) [صف] (۱) پھونک بھرتا - موٹا کرنا - مفرد کرنا - منکڑ کرنا۔

پھلا نگ - (پھل - لا) (۱-۵) [مشت] پھلانگ - ڈنگ - زخند - جست - قلاج پھلا لگنا - (پھل - لا) (۱-۵) [صف] پھلانگ مارنا - زخند بھرتا - جست کرنا۔

قلاج مارنا - پھلانا۔

پھلا ہی - (پھل - لا) (۱-۵) [صف] لیکر کی قسم کا ایک درخت جس کی مسواکیں بنتی ہیں۔

پھل بھری - (۱-۵) [مشت] دیکھے برس۔

پھل پھانک - (رق - ۱) [مشت] پھول کی پتی - برگ گل۔

پھل پھلا - (پھل - پھل) (۱-۵) [صف] (۱) پھل پھل - پھلا - ملائم - نرم (۲) پھولا ہوا - کم ظرف۔

پھل پھلا لی - (رق - ۱) [مذ] پھل اور سبزی وغیرہ۔

پھلت - (پھل - لت) (۱-۵) [صف] (۱) پھل دینے والا (۲) استاروں کی

چال کا اثر۔

پھلتا - (پھل - تا) (۱-۵) [مذ] گدکا۔

پھلکی - (پھل - کٹ) (۱-۵) [مشت] پھولوں کی دکان - پھولوں کا بازار۔

پھل بھڑی - (پھل - بھڑ) (۱-۵) [مشت] (۱) وہ آتش بازی جس سے پھول بھڑتے ہیں (۲) پھل خرمورت - لڑائی بھگڑا کر دینے والی - فتنہ پرداز۔

پھل بھڑی پھوڑنا - (۱) محاورہ (۲) پھل بھڑی کو آگ دکھانا - (۳) فتنہ و فساد کی بات کرنا۔

پھلا - (پھل - ڈا) (رق - ۱) [مذ] توار کا پھل۔

پھل واپ - (پھل - واپ) (۱-۵) [صف] پھول جیسا - نازک - خوبصورت - ناز و نعمت میں پلا ہوا۔

پھلڑا - (پھل - ڈا) (۱-۵) [صف] پھل کی تصغیر - چاقو یا توار کا پھل۔

پھلا - (پھل - سا) (۱-۵) [مذ] (۱) دردانہ - پھانگ (۲) گاؤں کا جتہ۔

پھل سیرا - (پھل - سیر) (۱-۵) [صف] وہ کبوتر جس کا سر سفید اور بغیرہ جسم پر رنگین پر ہوں۔

پھل سیر طری - (پھل - سیر) (۱-۵) [مشت] پھولوں کی سیرج۔

پھل نیر - (پھل - نیر) (رق - ۱) [مذ] گلاب کا عرق۔

پھلک - (رق - ۱) [مذ] پھالا - پھیلولا۔

پھلکا - (پھل - کا) (۱-۵) [مذ] (۱) پھالہ - آبلہ - پھیلولا (۲) پھل - دھار - نوک (۳) دھنل - اکھاڑا (۴) نرم زمین۔

پھلکا - (پھل - کا) (۱-۵) [مذ] (۱) ہلکا - لیک (۲) ہلکی پھولی ہوتی چپاتی۔

پھلکاری - (پھل - کاری) (۱-۵) [مشت] (۱) کپڑے پر میل روٹے بنانے کا کام۔

(۲) ایک قسم کا کپڑا جس پر میل روٹے بنے ہوتے ہیں۔

پھلکی - (پھل - کی) (۱-۵) [مشت] پھلکا کی تصغیر - پکوڑی۔

پھلنا - (پھل - نا) (۱-۵) [صف] (۱) پھل لگنا - درخت کا بار آور ہونا - میوہ لگنا (۲) مبارک ہونا (۳) پکنا - بدن پر بہ کثرت پھوڑے پھیناں نکلنا (۴) صاحب اولاد ہونا - دولت مند ہونا (۵) خوش قسمت ہونا (۶) مانع ہونا (۷) پروان پڑھنا۔

پھلنا پھولنا - (۱) محاورہ (۲) پھل لگنا (۳) نسل بڑھنا (۴) ترقی کرنا۔

خوش حال ہونا۔

پھلنگ - (پھل - نگ) (۱-۵) [مشت] (۱) درخت کی چوٹی (۲) پھلانگ - جست (رق)۔

پھلوا - (پھل - وا) (۱-۵) [مذ] گرہ دار - پھندنا - بھار - لچھا۔

پھلوا - (پھل - وا) (۱-۵) [مذ] ایک قسم کا پان۔

پھلوا ری - (پھل - وا) (۱-۵) [مشت] (۱) پھل - وا - ڈی (۲) [مشت] (۱) پھولوں کا باج - چھوٹا سا باج (۲) بال پتھے۔

پھلوری - (پھل - وری) (۱-۵) [مشت] پکوڑی - پھلکی۔

پھلی - (پھل - لی) (۱-۵) [مشت] (۱) بھول کی قدرتی پھلی جس میں دانے ہوتے ہیں۔

پھلی لگی نہ پاپڑی، پشاک بہو آپڑی - (۱) (مشت) بغیر محنت و مشقت کے کوئی کام ہو جانا۔

پھیل - (ق ۱-۱) مٹ (۱) ایک زیر زمین ناک کی کیل۔

پھیل - (پھیل - لی) (۵-۱) مٹ (۱) پھولا کی تصغیر۔ ایک سفید داغ جو آنکھ کے اندر پڑ جاتا ہے (۲) پتے کا آئرنہ ناسل (۳) پھول کی شکل کا ایک زیر جو لار میں ناک میں یا دوسرے زیر میں لگا کر پہنٹی میں (۴) چائے میں ڈالنے کی ایک خوشبودار دوا۔

پھیلیاں دھرنا - (۱) محاورہ) دانت نکلنے سے پہلے سوزھوں کا کھیل ہو کر بھرتا۔

پھیلیاں - (پہر - لیر) (۵-ص) سفید رنگ میں سیاہ یا سیاہ میں سفید گل دار گائے یا بیل۔

پھیلیری - (پہر - لے - ری) (ق ۱-۱) مٹ (۱) کیل۔

پھیلل - (پہر - یل) (۵-۱) مذ خوش بودار تیل۔ پھولوں میں بسائے ہوئے تلوں کا تیل۔

پھیلیندا - (پہر - لیں) (۱) (۵-۱) مذ بڑی حاسن۔

پھین - (س ۱-۱) مذ سانپ کا پھیلا ہوا سر جو وہ ہستے کی حالت میں پھیلاتا ہے۔

پھین مارنا - (۱) سانپ کا اپنے پھن کو کسی چیز پر مارنا (۲) سانپ کا کاٹنا۔ ڈس (۳) سر مارنا۔ سخت کوشش کرنا۔

پھینصنا نا - (پھن - ہر - نا) (۵-۱) ص) غصہ کرنا۔ ہنایت غضب ناک ہونا۔ سانپ کا پھنگرنا۔

پھند - (۵-۱) مذ جھوٹ۔ فند۔ فریب۔

پھندا - (پھن - دا) (۵-۱) مذ رستی دھماگے یا تار کا حلقہ۔ گھسی (۲) فریب۔ (۳) قابو۔ بس (۴) تکلیف۔ مصیبت۔ قید۔

پھندا پڑنا - (۱) محاورہ) (۱) گرہ پڑ جانا۔ (۲) لہجنا (۲) حلق میں پھانسا پڑنا (۲) شادی ہو جانا۔

پھندا (دینا) لگانا - (۱) محاورہ) گرہ دینا۔ چھانسا لگانا۔

پھندا لگنا - (۱) محاورہ) مصیبت سے نکلنا۔ قرضے سے نجات پانا۔

پھندے میں (پڑنا) پھنسا - (۱) محاورہ) (۱) مصیبت میں مبتلا ہونا۔ بلا میں گرفتار ہونا (۲) قید ہو جانا۔

پھندے میں پھنسا نا - (۱) محاورہ) حال میں پھانسا - قابو میں لانا۔ فریب دینا۔

پھندے میں لانا - حال میں پھانسا۔ دم دینا۔

پھندا نا - (پھن - دا) (۱) (۵-۱) ص) لگنا۔ پار کرنا۔ پھا مذ نا کا متدی۔

پھندا نا - (پھندا - نا) (۵-۱) ص) جتبا۔ تانگے یا ریشم کا پھول یا گچھا جو تیسوں۔ ٹوپی ویزہ میں زینت کے لیے لگایا جاتا ہے۔

پھندا سا - (۱) ص) خناسا۔ پھوٹے قد کا۔

پھندیٹ - (پھن - دیت) (۵-۱) مذ) وہ پالو جانور جو اپنی آواز سے اپنے ہم جنسوں کو حال میں پھنسا نے۔

پھنسا نا - (پھن - سا) (۵-۱) ص) (۱) لہجنا۔ لپٹین (۲) لگانا (۳) پکڑ دانا۔ (۴) حال میں پکڑنا (۵) قابو میں لانا (۶) فریب دینا۔

پھنساؤ - (پھن - سا) (۵-۱) مذ) لہجنا۔ لپٹین۔ پکڑنا۔

پھنسا - (پھن - سا) (۵-۱) ص) (۱) لہجنا۔ لگانا (۲) گرفتار ہونا۔ پکڑا جانا۔ پھنسی - (پھن - سی) (۵-۱) مٹ) چھوٹا پھوڑا۔ دانہ جو جسم پر نکل آئے۔ پھنکا - (پھن - کا) (۵-۱) مذ) ایک دفعہ کے پھانسنے کی مقدار۔ پھنکا۔ پھنکا (لگانا) مارنا - (۱) محاورہ) ایک ہی دفعہ پھانک جانا۔ کسی شوگی پسی ہوئی چیز کو یک بار کی منہ میں ڈال لینا۔

پھنکار - (پھن - کار) (۵-۱) مٹ) سانپ کے سانس چھوڑنے کی آواز۔ دم پھونک پھنکا نا۔ (۱) ص) (۱) مٹ) کرنا۔

پھنکنا - (پھنک - نا) (۵-۱) ص) (۱) گرتا۔ بکھرتا (۲) صنایع ہونا۔

پھنکنا - (پھنک - نا) (۵-۱) ص) (۱) جانا۔ جھلنا۔

پھنکنی - (پھنک - نی) (۵-۱) مٹ) بانس کی سوراخ دار نلی جس سے آگ پھونکتی ہے۔

پھنکوانا۔ پھکوانا - (پھنک - وا) (۱) (پھنک - وا) (۱) (۵-۱) ص) پھینکنا کا متدی المتدی۔

پھنکوانا۔ پھکوانا - (پھنک - وا) (۱) (پھنک - وا) (۱) (۵-۱) ص) پھونکنا کا متدی المتدی۔

پھنکی - (پھن - کا) (۵-۱) مٹ) (۱) ایک دفعہ پھانسنے کی مقدار (۲) سفوف۔

پھنکی - (پھن - کی) (۵-۱) مٹ) شاخ کا برسا۔ ناک کی ڈک۔

پھنکنی - (پھنک - نی) (ق) پھنسی۔ پھوڑا۔

پھننگ - (۵-۱) مٹ) درخت کی پوٹی۔ شاخ کا برسا (۲) کوڑے کا برسا۔

پھننو - (پھن - نو) (۵-۱) مٹ) ننھے بچوں کا عضو تناسل۔

پھنی - (پہر - نی) (۵-۱) ص) (۱) پھن والا (۲) ایک قسم کا سانپ (۳) گونا گونا گئے کا آلہ۔

پھنی - (پھنی - نی) (۵-۱) مٹ) (۱) پھن (یا) (۵-۱) مٹ) (۱) پھندا (۲) گائے (۳) پھنی پھنی کا آلہ تناسل۔

پھنی - (پھن - نی) (۵-۱) مٹ) مخرومہ لکڑی یا کیل جو لکڑی چیرتے وقت جوف میں لگائی جائے۔ پھان۔

پھنیارا - (پھن - یا) (۱) (۵-۱) مٹ) (۱) فرازہ

پھنو - (۵-۱) مٹ) پھونکنے کی آواز۔

پھنوا پھنو - (پہر - وا) (۵-۱) مٹ) لڑکیوں کا ایک کھیل جس میں وہ باہم ہاتھ ملا کر مٹھے میں چمک پھیرا لیتی ہیں۔

پھوار - (پہر - وار) (۵-۱) مٹ) (۱) ہلکا ہلکا مینہ (۲) ایک قسم کا جامی دار باریک کپڑا جس پر چھوٹی چھوٹی بندکیاں بنی ہوتی ہیں۔

پھوارا - (پہر - وار) (۵-۱) مٹ) (۱) فرازہ۔

پھوہا - (پھو - ہا) (۵-۱) مذ) پھوہی کا شوہر۔

پھوپس - (پھو - پس) (۵-۱) مٹ) پھوپیا ساس۔

پھوٹ - (۵-۱) مٹ) (۱) ناقاتی - بگاڑ۔ عداوت (۲) خرابی کے قسم۔ کا ایک کھیل جو یک کر کھل جاتا ہے۔

پھوٹ آنا - (۱) محاورہ) باہر نکل جانا۔ نورا ہونا (۲) کلا نکلنا۔

پھوٹ ہینا - (۱) محاورہ) (۱) رو پڑنا۔ زار و زار رونا (۲) ہمد کھول دینا۔ (۳) پھوڑا۔ پھوٹ کر مود جاری ہونا۔ سیال مادے کا بند توڑ کر نکل جانا۔

چھوٹ پڑنا۔ (۱- محاورہ) نا اتفاقی ہونا۔ دشمنی ہونا۔ جدائی ہونا۔
 چھوٹ پھٹک رہنا۔ (۱- محاورہ) اسی بن رہنا۔ نا اتفاقی اور جھگڑا رہنا۔
 چھوٹ چھوٹ کر رونا۔ (۱- محاورہ) زادزارا رونا۔ بہت آنسو بہانا۔
 چھوٹ ڈرنا۔ (۱- محاورہ) باہم دشمنی ڈال دینا۔ جدائی کرانا۔
 چھوٹ ساجھل جانا۔ (۱- محاورہ) ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا۔ کھل جانا۔ شق ہونا۔
 چھوٹ کر نکلنا۔ درخت میں شاخ نکلنا۔ بیج میں آنکھوا نکلنا۔
 چھوٹ نکلنا۔ (۱- محاورہ) جسم پر پھینساں ہو جانا (۲) توڑ کر نکل جانا۔
 (۳) راز نکلنا (۴) چھوٹے کا بیک کر چھوٹ بننا۔

چھوٹا۔ (چھوٹا)۔ (۱- صفت) ٹوٹا ہوا شگفتہ۔
 چھوٹا نے۔ (۱- مذ۔ جمع) جھٹنے ہوئے تھے۔
 چھوٹک۔ (چھوٹیک)۔ (۱- اسم) (۲) ریزہ (۳) وہ چیز جو ریزہ ریزہ ہو جائے۔ ٹوٹا۔

چھوٹن۔ (چھوٹن)۔ (۱- اسم) نا اتفاقی (۲) اعضا شکنی۔
 چھوٹنا۔ (چھوٹنا)۔ (۱) دس بمیں (۲) ٹوٹنا (۳) شگفتہ ہونا۔ کھلنا (۳)
 پھیناں نکلنا (۴) ظاہر ہونا (۵) پتے نکلنا (۶) پھٹنا (۷) خبر پھیلنا۔
 (۸) پکے یا پکتے زخم کا پھٹ کر آلاش نکلنا (۹) مزین مخالفت سے بل جانا
 (۱۰) رنگ نمایاں ہونا (۱۱) روشنی جاتی رہنا (آکھ کے لیے) (۱۲) کوڑھ ہونا۔
 (۱۳) توڑ کر نکل جانا۔ بعض جگہوں میں ٹوٹنا کے معنی بھی دیتا ہے۔ بعض میں
 ٹوٹنا چھوٹنا دونوں متعل ہیں۔

چھوٹی۔ (چھوٹی)۔ (۱- صفت) ٹوٹی ہوئی۔ شکستہ۔ چھوٹا کی تصغیر۔
 چھوٹی آکھ کا تارا۔ چھوٹی آکھ کا دیدہ۔ (۱- مذ) کئی بیڑوں میں ایک
 بیٹا جو زندہ رہا ہو۔ نہایت عزیز۔ بہت پیارا۔
 چھوٹی آکھ نہ بھانا (نظروں) (دیدوں)۔ (۱- محاورہ) ذرا بھی گوارا نہ
 ہونا۔ برائگنا۔ بالکل پسند نہ آنا۔

چھوٹی کوڑھی۔ (۱- اسم) نہایت حقیر رقم۔ ادنیٰ رقم۔
 چھوٹی کوڑھی پاس نہ ہونا۔ (۱- محاورہ) کچھ بھی پاس نہ ہونا۔
 چھوٹی ہانڈی آواز سے پھپھاتی جاتی ہے۔ (۱- مثل) سبب یا نقص
 کا آسانی سے پتہ چل جاتا ہے۔

چھوٹے مٹھ سے۔ بڑے مٹھ سے۔ بد دلی سے۔
 چھوڑا۔ (چھوڑا)۔ (۱- مذ) ڈبل۔ گورٹ۔ بڑی اور موٹی پھنسی۔ زہریلے
 مادے کی قبیلہ (۲) بہت تکلیف دہ خیال (۳) نالائق اولاد۔
 چھوڑا چھوٹنا۔ (۱- محاورہ) چھوڑا پک کر مواد نکلنا۔
 چھوڑا نکلنا۔ ڈبل نکلنا۔ گورٹا ظاہر ہونا۔
 چھوڑنا۔ (چھوڑنا)۔ (۱- معن) (۲) توڑنا۔ ٹکڑے کرنا (۳) ظاہر کرنا۔
 چھوس۔ (۱- مذ) (۲) وہ لمبی گھاس جس کا پتھر بناتے ہیں۔ پڑنی گھاس (۳)
 بہت ضعیف (۴) جلد بل جانے والا۔
 چھوس کا تاپنا۔ (۱- محاورہ) کھینے سے فائدے کی امید رکھنا (۲) فضول
 کام کرنا۔
 چھوس میں چنگاری ڈالنا۔ (۱- محاورہ) فساد کرنا۔ شتمناں دلانا۔
 چھوسرا۔ (چھوسرا)۔ (۱- محاورہ) (۲) ریشم یا کپڑے وغیرہ

کاریشہ (۲) بچہ۔ اولاد۔
 چھوسا۔ (چھوسا)۔ (۱- معن) (۲) چھوس (۳) چھوسا (۴) کوٹا کر کٹ۔
 چھوک۔ (۱- مذ) (۲) فصل ہوگی چیز کے پکڑ لینے کے بعد چبے (۳) خالی۔
 کھوکھلا (۴) بد ذائقہ۔ سبھا۔

چھوکا۔ (چھوکا)۔ (۱- مذ) (۲) بلا۔ بیک (۳) جس میں کوئی طاقت نہ ہو۔
 چھوٹ۔ (چھوٹ)۔ (۱- معن) (۲) اٹھت کی چیز۔ بے قیمت چیز (۳) ہنکایا
 نالائق شخص۔ منفس آدمی۔

چھوٹ کا۔ (۱- صفت) اٹھت کا۔ بے دام۔
 چھوکلا۔ (چھوکلا)۔ (۱- معن) (۲) چھوک (لا)۔ (۳) خالی (۴) منفس۔ کھوکھلا
 چھوگنا۔ (۱- معن) (۲) چھوٹنا۔

چھول۔ (۱- مذ) (۲) رنگین پتوں کا وہ گچھا جس سے بعد میں پھل یا بیج نکلیں
 (۳) پتنگا۔ مشارہ (۴) نقش و نگار (۵) ہندو مردے کی جلی ہوئی بڑیل
 کی راکھ (۶) ایک قسم کی مرکب دھات کانسٹی (۷) حیض کا خون (۸) ہندوؤں
 کا تہا۔ مسلمان مردوں کی ناتھو خانگی کی رسم (۹) جسم پر سفید داغ (۱۰) ہساگ
 کے سونے ہوئے پتے (۱۱) شراب (۱۲) ہلکا۔ بیک (۱۳) کسی تہلی چیز کے
 جھا کر سکھائے ہوئے ذرے (۱۴) ذک۔ دھار۔

چھول آنا۔ (۱- محاورہ) (۲) درخت میں چھول لگانا۔ موسم بہار آنا (۳) حیض آنا۔
 چھول اترنا۔ (۱- محاورہ) درخت سے چھولوں کا پھٹنا جانا۔
 چھول پان۔ (۱- مذ) (۲) اجتام۔ انجام کار۔ برائی بھلائی (۳) نازک۔ نازک اندام
 چھول پان دینا۔ (۱- محاورہ) خاطر مدارات کرنا۔
 چھول پان کی گدھی۔ (۱- اسم) بچوں کا ایک کھیل۔

چھول پتی۔ (۱- اسم) بیل پڑنا۔ نقش و نگار۔
 چھول پڑنا۔ (۱- محاورہ) (۲) چنگاری پڑنا۔ آگ لگانا (۳) داغ پڑنا۔
 چھول چھانا۔ (۱- محاورہ) (۲) کتا تہا) خفا ہو جانا۔
 چھول چھڑنا۔ (۱- محاورہ) (۲) چھولوں کا درخت سے گزنا۔ خزاں ہونا (۳) خوش
 کلامی کرنا۔ فصاحت سے بولنا۔ میٹھے بول بولنا (۴) چراغ اور آتش بازی
 میں سے چھول نکلنا۔

چھول جھڑے توپھل لگے۔ (۱- مثل) ایک کا نقصان ہوتا ہے تو دوسرے
 کو فائدہ ہوتا ہے۔

چھول چڑھانا۔ (۱- محاورہ) قبر یا مورت پر چھول رکھنا۔
 چھول چھیننا۔ (۱- محاورہ) (۲) چھول توڑنا (۳) ہندوؤں کی ایک رسم جس میں
 نیچے کے دن مردے کی پڑیاں جن کو دریا میں بہاتے ہیں۔
 چھول سوکھنے کے رہنا۔ (۱- محاورہ) بہت کم کھانا۔

چھول کاڑھنا۔ (۱- محاورہ) کپڑے پر رسوا تانے سے چھول بنانا۔
 چھول کا مہنسا۔ (۱- محاورہ) چھول نکلنا۔ چھول کا شگفتہ ہونا۔
 چھول کھرتنا۔ (۱- محاورہ) (۲) چراغ کا کل کھرتنا (۳) انوکھا کام کرنا۔
 چھول کھلانا۔ (۱- محاورہ) چھول کا مڑھانا۔

چھول کھلنا۔ (۱- محاورہ) (۲) بندگی کا چھول بنا۔ شگفتہ ہونا (۳) بیاہ ہوتا۔
 چھول کی جگہ پتکھڑی۔ (۱- مثل) بہت چیز کی بجائے تھوڑی سی۔ بہت نہیں
 بنتی اور ہی ہوتی۔

پھول کی چھڑی نہیں (لگائی) چھوٹی۔ (۱-۱) محاورہ کبھی نہیں مارا۔ لٹھ تک نہیں لگایا۔ بڑے ناز و نعمت میں رکھا۔

پھول کے دن۔ (۱-۱) محاورہ حین کا زمانہ۔

پھول کے گپتا ہو جانا۔ (۱-۱) محاورہ بہت موٹا ہو جانا۔ بہت پھول جانا۔ پھول کو بھی۔ (۱-۱) مثلاً وہ گویں میں میں بڑا پھول آتا ہے۔ ایک قسم کا گرم گلا۔ پھول لانا۔ (۱-۱) محاورہ درخت میں پھول لگنا۔ پھول نمودار ہونا۔ پھولوں سے لانا۔

پھول نہیں پکھڑی ہسی۔ (۱-۱) مثل [جول جائے غنیمت ہے۔

پھول والوں کی سیر۔ (۱-۱) مثلاً دہلی کا مشہور سالانہ میلہ جو برسات کے موسم میں حضرت خراج قطب الدین بختیار کاکی کے مزار پر پھول والے منعقد کرتے تھے۔

پھول دہی جو ہمیش چڑھے۔ (۱-۱) پھول دہی جو کسی مقدس مقام پر بڑھائے جائیں یا کسی بڑے آدمی کی خدمت میں پیش ہوں (۲) تدبیر دہی ٹیک ہے جو کام آجائے۔

پھول ہونا۔ (۱-۱) محاورہ فاتح اور رسوم کی رسوم کا ادا ہونا۔ تیرا ہونا۔

پھولوں کا گینا۔ (۱-۱) صفت (۱) پھولوں کا زیر (۲) پیک۔

پھولوں کی بدھی۔ (۱-۱) مثلاً گلے میں ڈالنے والا پھولوں کا بار۔

پھولوں کی چادر۔ (۱-۱) صفت پھولوں کی لٹائی جو چادر کے طور پر گوندھ کر مزار پر بڑھاتے ہیں۔

پھولوں کی چھڑی۔ (۱-۱) مثلاً وہ کڑی جس میں پھولوں کے ڈار چھتی کھیلنے کے لیے لگا دیتے ہیں (۲) مشقوں کے ہاتھ کی مار۔

پھولوں کی بیج۔ (۱-۱) مثلاً وہ بنگ جو پھولوں سے سجایا جائے۔ بستر راحت۔ پھولوں میں تلنا۔ (۱-۱) محاورہ نہایت نازک بدن ہونا بہت تنگ ہونا

پھول۔ (۱-۱) سوجی ہوئی جگہ۔

پھول بیٹھنا۔ (۱-۱) محاورہ نہ راض ہو کر بیٹھنا مٹھا ہو جانا۔

پھول پھول کر بیٹھنا۔ (۱-۱) محاورہ نہایت خوش ہو کر بیٹھنا (۲) مغزور ہونا۔

پھول جانا۔ (۱-۱) محاورہ (۱) سوجنا۔ دم ہو جانا (۲) موٹا ہونا (۳) ہوا بھر کر اچھڑ جانا (۴) مغزور ہونا۔

پھولا۔ (پھولا۔ ۱-۱) مذ (۱) آنکھ کی پھٹی۔ آنکھ کی سیاہی پر ایک سفید دھبہ پیدا ہو جانا (۲) پھولا (۳) کابل۔

پھولا۔ (پھولا۔ ۱-۱) مذ (۱) بڑوں کا ایک مرض جس میں جانور پھول جاتا ہے اور پھر کاش نکلنے سے مر جاتا ہے (۲) سفیدی کا نشان جو لکڑیوں کے پھولوں ٹانگوں یا دان پر ہوتا ہے۔ یہ نشان مخوس سما جاتا ہے (۳) پھولا ہوا۔

پھولا پھولا رہے۔ (۱-۱) محاورہ سرسبز دشت داب اور خوش و فرم رہے۔ پھولا پھولا پھیرنا۔ (۱-۱) محاورہ خوش خوش پھیرنا۔ بے فکری سے گھومنا۔

پھولا نہ سما نا۔ (۱-۱) محاورہ نہایت خوش ہونا خوش کے مارے پھول جانا۔ پھولا م۔ (پھولا م۔ ۱-۱) مذ (۱) ایک قسم کا ریش کپڑا جس میں طرح طرح کے پھول بنے ہوتے ہیں۔

پھولنا۔ (پھولنا۔ ۱-۱) صفت (۱) سوجنا۔ بھرا ہونا (۲) اچھڑنا (۳) شگفتہ ہونا۔

(۴) موٹا ہونا (۵) ظاہر ہونا (۶) معزور ہونا (۷) خوش ہونا۔

سرسبز ہونا۔

پھولنا پھلنا۔ (۱-۱) محاورہ (۱) درخت کا سرسبز اور بار آور ہونا (۲) انسان کا دولت مند اور صاحب اولاد ہونا۔ بار آور ہونا۔

پھول پھلو۔ (پھول۔ ۱-۱) مذ (۱) کھلنا۔ (۲) خوش رہو۔ اقبال بڑھے۔ پھولے پھلے۔ (پھولے۔ ۱-۱) صفت (۱) سرسبز دشت داب ہو۔ خوش و فرم اور بار آور ہوں۔

پھول پھال۔ (۱-۱) مثلاً (۱) کڑی۔ (۲) شبنم (۳) غصہ۔ ناخوشی۔

پھول پھال کرنا۔ (۱-۱) محاورہ سانسپ کی طرح چمکانا۔ غصہ کرنا۔

پھول پھلا۔ (پھول پھلا۔ ۱-۱) صفت (۱) پھولنا۔ (۲) اٹھنا۔ (۳) اٹھنا۔ (۴) اٹھنا۔ (۵) اٹھنا۔ (۶) اٹھنا۔ (۷) اٹھنا۔ (۸) اٹھنا۔ (۹) اٹھنا۔ (۱۰) اٹھنا۔

پھولنے کی پھال۔ (۱-۱) مثلاً (۱) اٹھنا۔ (۲) اٹھنا۔ (۳) اٹھنا۔ (۴) اٹھنا۔ (۵) اٹھنا۔ (۶) اٹھنا۔ (۷) اٹھنا۔ (۸) اٹھنا۔ (۹) اٹھنا۔ (۱۰) اٹھنا۔

پھولنس۔ (۱-۱) مذ (۱) دیکھنے پھولنس۔

پھونک۔ (۱-۱) مثلاً (۱) وہ ہوا جو زور سے منہ سے نکالی جائے۔ سانس۔ نفس۔

(۲) منتر (۳) روح (۴) ہلکا۔ کھوکھلا۔

پھونک پھونک کر (یا اول) قدم رکھنا۔ (۱-۱) محاورہ (۱) احتیاط سے آہستہ آہستہ چلنا (۲) بیچ کر کام کرنا۔ ڈرتے ڈرتے کچھ کرنا۔

پھونک دینا۔ (۱-۱) محاورہ (۱) جلا دینا (۲) ہسٹم کر دینا (۳) بہکانا (۴) تھے کا پانی نکالنا (۵) شہتر کر دینا (۶) کچھ کہہ کر مغزور کر دینا (۷) دم کر دینا (۸) کان میں کپڑا دینا۔ بہکانا۔

پھونک دالنا۔ (۱-۱) محاورہ (۱) جلا دینا (۲) تباہ کر دینا (۳) دولت اڑانا دینا (۴) منتر یا دم کرنا۔

پھونک سرک جانا۔ (۱-۱) محاورہ گھبرا جانا۔ ڈر جانا۔ جوش اٹھ جانا۔

پھونک مارنا۔ (۱-۱) محاورہ (۱) زور سے منہ سے ہوا نکالنا (۲) جھگانا۔ غاروش کرنا (۳) جادو کرنا (۴) جھگانا۔ ٹھگانا۔

پھونک نکل جانا۔ (۱-۱) محاورہ دم نکل جانا۔ سانس نکل جانا۔

پھونکنا۔ (پھونکنا۔ ۱-۱) صفت (۱) پھونک مارنا (۲) جھگانا۔ آگ لگانا (۳) ہسٹم کرنا (۴) دم کرنا (۵) بہکانا۔ کان بھرنے (۶) شام کرنا۔ پھیلانا (۷) ستانا (۸) برباد کرنا۔

پھونکی پھری۔ (پھونکی۔ ۱-۱) صفت (۱) پھری۔ (۲) پھری۔ (۳) پھری۔ (۴) پھری۔ (۵) پھری۔ (۶) پھری۔ (۷) پھری۔ (۸) پھری۔ (۹) پھری۔ (۱۰) پھری۔

پھولا۔ (پھولا۔ ۱-۱) مذ (۱) بڑوں کا ایک مرض جس میں جانور پھول جاتا ہے اور پھر کاش نکلنے سے مر جاتا ہے (۲) سفیدی کا نشان جو لکڑیوں کے پھولوں ٹانگوں یا دان پر ہوتا ہے۔ یہ نشان مخوس سما جاتا ہے (۳) پھولا ہوا۔

پھولا۔ (پھولا۔ ۱-۱) مذ (۱) بڑوں کا ایک مرض جس میں جانور پھول جاتا ہے اور پھر کاش نکلنے سے مر جاتا ہے (۲) سفیدی کا نشان جو لکڑیوں کے پھولوں ٹانگوں یا دان پر ہوتا ہے۔ یہ نشان مخوس سما جاتا ہے (۳) پھولا ہوا۔

پھولا۔ (پھولا۔ ۱-۱) مذ (۱) بڑوں کا ایک مرض جس میں جانور پھول جاتا ہے اور پھر کاش نکلنے سے مر جاتا ہے (۲) سفیدی کا نشان جو لکڑیوں کے پھولوں ٹانگوں یا دان پر ہوتا ہے۔ یہ نشان مخوس سما جاتا ہے (۳) پھولا ہوا۔

پھولا۔ (پھولا۔ ۱-۱) مذ (۱) بڑوں کا ایک مرض جس میں جانور پھول جاتا ہے اور پھر کاش نکلنے سے مر جاتا ہے (۲) سفیدی کا نشان جو لکڑیوں کے پھولوں ٹانگوں یا دان پر ہوتا ہے۔ یہ نشان مخوس سما جاتا ہے (۳) پھولا ہوا۔

پھولا۔ (پھولا۔ ۱-۱) مذ (۱) بڑوں کا ایک مرض جس میں جانور پھول جاتا ہے اور پھر کاش نکلنے سے مر جاتا ہے (۲) سفیدی کا نشان جو لکڑیوں کے پھولوں ٹانگوں یا دان پر ہوتا ہے۔ یہ نشان مخوس سما جاتا ہے (۳) پھولا ہوا۔

پھیری - (پھیرے - ری) - (۱- منٹ) (۱) طواف (۲) گشت - چکر (۳) گداگروں کا گشت (۴) خوردہ فروش کا گشت -

پھیری پھرنا - (۱- معاوہ) - بیچنے یا بیکھنے مانگنے جانا - گشت لگانا -

پھیری والا - (۱) وہ شخص جو گلی کوڑوں میں پھیر کر سودا بیچے - بساطی - خولپے والا (۲) وہ فقیر جو معمولاً پھیری لگائے -

پھیرنا - (پھیڑنا) - (۱) زق - مص [اداکرنا -

پھیکا - (پھی - کا) - (۱) صف [(۱) بے نمک - (۲) الونا - کم شیریں (۲) بد مزہ - بے ذائقہ (۳) ہلکا - تدم (۴) اداس (۵) رُوکھا - بد اخلاق -

پھیکا پڑ جانا - (۱- معاوہ) (۱) رنگ تدم ہو جانا - بے آب ہو جانا (۲) شرمندہ ہو جانا -

پھیکا پنڈا - (۱- مذ) خفیف سا بننا -

پھیکا غمزہ - (۱- مذ) بے لطف خرمہ - شرمغزہ -

پھیکا مُرہ کرنا - (۱- مذ) افسردہ ہونا (ق) -

پھسکی - (پھس - کی) - (۱- منٹ) پھسکا کی تائنت - بے نمک - بد مزہ -

پھسکرنا - (پھسے - کڑا) - (۱) ق - میٹر کسی ٹانگوں والا -

پھیلا نا - (پھیلے - لانا) - (۱- منٹ) (۱) بچھانا (۲) لمبا کرنا (۳) کھولنا - بڑھانا -

(۴) تقسیم کرنا - باشتا (۵) حساب کرنا (۶) مُشتر کرنا (۷) بھیرنا (۸)

شردن کرنا - (۹) پرتال کرنا -

پھیلاؤٹ - (پھیلے - لاؤٹ) - (۱- منٹ) (۱) تقسیم - بانٹ (۲)

حساب کا عمل -

پھیلاؤ دینے - (لاؤ - ۱- منٹ) (۱) پڑوائی - دُصحت (۲) درازی - اندازہ

مقدار - تخمینہ -

پھیل کر بیٹھنا - (اُڑ - مص) [فراغت سے بیٹھنا - کھل کر بیٹھنا -

پھیلنا - (پھیل - نا) - (۱- مص) (۱) پھسنا (۲) فراخ ہونا (۳) مشہور ہونا (۴) بکھرنا (۵) چھانا (۶) بڑھنا (۷) ضد کرنا (۸) کثیر الاولاد ہونا (۹) موٹا ہونا (۱۰) حد سے بڑھنا (۱۱) بکثرت ہونا (۱۲)

بے تکلف ہونا -

پھین - (۱- منٹ) (۱) بھاگ - کف (۲) رطوبت جو مُنہ سے نکلے -

پھینٹی - (پھین - ٹی) - (۱- منٹ) [سوت کی آبی -

پھینچنا - (پھینچ - نا) - (۱- مص) [صابروں کے بنیر کیڑا دھونا - کھٹکنا -

پھینک - (۱- منٹ) [بکھر - پھار -

پھینک پھانک - پھینک کر -

پھینک دینا - (۱- معاوہ) (۱) اُگرا دینا (۲) صانع کر دینا (۳) اُچھال دینا -

(۴) بکھیر دینا -

پھینکنا - (پھینک - نا) - (۱- مص) (۱) ڈالنا - گرانہ (۲) بکھیرنا (۳) پھینا - دے

مارنا (۴) سرپٹ دوڑانا (۵) اُچھالنا (۶) صانع کرنا (۸)

پڑکھیلنا -

پھینسی - (پھینے - ٹی) - (۱- منٹ) [ایک قسم کی گھی میں تلی ہوئی پتھے دار میدے

کی روٹی - جسے گرم دودھ میں جھوکر کھاتے ہیں -

پھینسا - (پھی - ۱- منٹ) (۱) چھان (۲) مڑنی کی ایک ہماری جس میں پیٹ کے

پھول جوتا دیتے دقت اُپر آجاتا ہے (۳) باریک بُوند - پھوار -

پھوٹیاں پھوٹیاں - (پھوٹو - یان - پھوٹو - یان) (۱) قطرہ قطرہ - کم کم - تھوڑا تھوڑا -

پھوٹیاں پھوٹیاں تالاب بھر جاتا ہے - (۱) ش [تھوڑا تھوڑا کر کے بہت ہو جاتا ہے -

پھوٹے - (ق) - (۱- مذ) [پھوٹے -

پھیسا - (پھی - یا) - (۱- مذ) [منافع یا سود -

پھیپڑا - (پھیپڑے - ٹرا) - (۱- منٹ) [سانس لینے کا عضو - وہ عضو جو دل کے قریب ہوتا ہے -

پھیپڑا جھلانا - (۱- معاوہ) [کسی کی خیر خواہی کرنا -

پھیپڑی - (پھیپڑے - ڈی) - (۱- منٹ) [ہونٹوں کی خشکی - پپڑی جو گرمی کی وجہ سے بول پر بندھ جاتی ہے -

پھیپڑی بندھ جانا - (۱- معاوہ) [پیاس سے ہونٹوں کا خشک ہو جانا -

پھیٹ - پھیٹ - (۱- منٹ) [پیٹی - کر بندھ - پھکا -

پھیٹا پھیٹا - (پھیٹے - ٹا) [دھیس [ٹا] - (۱- منٹ) [سر سے باندھنے کا پھرواؤ - پھوٹی پگڑی - دستار -

پھیٹنا - پھیٹنا - (پھیٹنا - پھیٹنا) - (۱- منٹ) [ملانا - ایک جان

کرنا - حل کرنا - مارنا -

پھیر - (۱- منٹ) (۱) چکر - موڑ - گھاؤ (۲) فاصلہ (۳) انقلاب (۴) راستے

کی میٹر (۵) بیچ - فریب (۶) اُچھاؤ - بکھیرا (۷) فرق (۸) فکر (۹)

حلقہ (۱۰) اندازہ - تخمینہ -

پھیر باندھنا - (۱- معاوہ) [تار باندھنا (۲) محدود کرنا (۳) پگڑی باندھنا -

پھیر بدل - (۱- مذ) [عوض - معاوضہ - بدل - انقلاب -

پھیر بندھنا - (۱- معاوہ) [کسی چیز کا تسلسل بندھنا - دُور بندھنا -

پھیر پڑنا - (۱- معاوہ) (۱) چکر پڑنا (۲) فرق ہونا -

پھیر پھار - (۱- منٹ) (۱) ہیرا پھیری - اُلٹ پلٹ (۲) بیچ - حال - فریب -

پھیر دینا - (۱- معاوہ) (۱) واپس کر دینا - لوٹا دینا (۲) رُخ موڑنا -

پھیر کھانا - (۱- معاوہ) [دُور کی راہ سے جانا (۲) مصیبت میں پھینا

(۳) گھاٹا پڑنا -

پھیر لینا - (۱- معاوہ) [واپس کر لینا - لوٹا لینا -

پھیر میں آنا - (۱- معاوہ) [چکر میں آنا - گردش میں آنا -

پھیرا - (پھیے - را) - (۱- منٹ) [گشت - دُورہ (۲) طواف (۳) موڑ - گھاؤ -

(۴) حلقہ - دائرہ (۵) گداگر فقیروں کا گشت (۶) آسیب کا حمل (۷)

ناشتہ جو بچوں کو تیسرے پہر دیتے ہیں (۸) چونا تاپنے کا پیمانہ -

پھیرے ڈالنا - (۱) نکاح کرنا - عقد کرنا (۲) کسی کام کے لیے بار بار جانا -

پھیرنا - (پھیرنا - ۱- منٹ) [کھٹنا - چکر دینا - پھرانا (۲) واپس کرنا (۳)

موڑنا - رُخ بدلنا (۴) سدھانا - نکالنا (۵) گھوڑے کو آگے یا پیچھے

موڑنا (۶) رنگ پڑھانا - قلعی کرنا (۷) پٹنا (۸) دُہرانا (۹) ناراض کرنا

(۱۰) چھوٹا (۱۱) سیر کرنا (۱۲) پٹنا - زبان بدلنا -

پھیری - (پھیے - ری) [ق) - (۱- منٹ) [کئے کی پور -

پیتیس - (پلی۔ تیس) - وہ - ۱ - مٹھ (مٹھ) کے بھائی کی بیوی - پیچاساس -
 پیتیسرا - (پلی۔ تیس) - (دا) - وہ - ۱ - مٹھ (مٹھ) کا بھائی -
 پیتیل - (پلی۔ تیس) - وہ - ۱ - مٹھ - برج - زرد رنگ کی دھات جو جھٹ اور
 تانبا ملا کر بنائی جاتی ہے -

پیتیلی - (پیت - لی) - وہ - (صفت) - (۱) پیتیل کا - (۲) برنجی (۲) - زرد - پیلا -
 پیتیم - (پلی - تم) - وہ - ۱ - مٹھ - محبوب - مشتوق (۲) - نہایت پیارا -
 پیتیمبر - (پلی - تم - بر) - (س) - ۱ - مٹھ (۱) - زرد (۲) - زرد رنگ کا لکڑی کا پتلا -
 پیٹ - وہ - ۱ - مٹھ (۱) - چھاتی اور پیڑوں کے درمیان کا حصہ جہاں کھانا ہضم ہوتا
 ہے (۱) شکم - بطن (۲) - رحم - پتھر دان (۳) - عمدہ (۴) - حمل (۵) - مٹھ جو ف
 (۶) - توب کا وہ حصہ جہاں گولہ رکھا جاتا ہے (۷) - گنہائش - سمانی (۸) -
 حوصلہ - ظرف (۹) - اندرون - باطن (۱۰) - مجید (۱۱) - دائرے کا اندرونی
 حصہ (۱۲) - طبع - ہوس (۱۳) - خرداک -

پیٹ ابھرنا - (۱) - محاورہ) پیٹ بھولنا - نغز ہونا -
 پیٹ باندھنا - (۱) - محاورہ) خواہش سے کم کھانا - بھوک منبھ کرنا -
 پیٹ بچانا - (۱) - محاورہ) خوشی منانا - خوش ہونا -
 پیٹ بڑی بلا ہے - (۱) - محاورہ) بھوک بہت بڑی چیز ہے -
 پیٹ بڑا ہونا - (۱) - محاورہ) ہوس کا زیادہ ہونا -

پیٹ بڑھانا - (۱) - محاورہ) خوراک بڑھانا - مقدار سے زیادہ کھانے
 کی عادت ڈالنا (۲) - دوسرے کے جتنے پر دانت رکھنا -
 پیٹ بڑھنا - (۱) - محاورہ) خوراک بڑھنا (۲) - مہلذہر یا استسقاء
 کے باعث پیٹ بڑھ جانا -

پیٹ بولنا - (۱) - محاورہ) قرقر ہونا - بوجھ کے باعث پیٹ میں سے آواز نکلنا
 پیٹ بھاری ہونا - (۱) - محاورہ) گرانی شکم ہونا - بدہمی ہونا -
 پیٹ بھرا - (۱) - صفت) (۱) شکم سیر (۲) مال دار - فارغ البال (۳) -
 خود مختار - آزاد -

پیٹ بھر جانا - (۱) - محاورہ) (۱) سیر ہونا - (۲) اگتا جانا (۳) اچھ جانا - مفرد ہونا
 پیٹ بھرنے - (۱) - محاورہ) (۱) سیر ہونا (۲) گزار کرنا (۳) دولت مند ہونا
 (۴) اگتا - طبیعت بھرنا -

پیٹ بھرے رذالے اور بھوکے بھلے مانس سے ڈرے - (۱) بشل
 منفس دو لہندی کی حالت میں اور دولت مند عربی کی حالت میں خطرناک
 ہوتا ہے -

پیٹ بھرے کی باتیں - دو لہندی کی باتیں - منکرانہ باتیں -
 پیٹ بھرے کے گن - (۱) - محاورہ) مفرد رانہ کلام - آزادانہ اطوار -
 پیٹ پانی ہے - (۱) - مٹھ) بھوک بہت سے گن ہوں کا باعث بنتی ہے -
 پیٹ پالنا - (۱) - محاورہ) (۱) مشکل سے کم کھانا - بدشواری گزارا وقت
 کرنا (۲) پیٹ بھرنا (۳) نفس پرستی کرنا -

پیٹ پالنا کتا بھی جانتا ہے - پیٹ پالنا ہی دنیا میں کام نہیں -
 خود سزاؤ کی کے متعلق کہا جاتا ہے -
 پیٹ پاؤ - (۱) - صفت) (۱) نفس پرست - بندہ شکم (۲) لہکی - حریص -
 پیٹ پانی ہوتا - (۱) - محاورہ) دست آنا - بدہمی ہونا -

پیام بر (رسال) - (ف - صفت) قاصد - لہجی - سفیر -
 پیام اسلام - (ف - ع - مذ) (۱) دوسرے کی معرفت سوال جواب (۲)
 نسبت کا پیام -

پیامی - (پ - یا - می) - (ف) - ۱ - مذ) پیام لے جانے والا - قاصد -
 پیانیسٹ - (Pianist) (پ - یا - نسٹ) (۱) انگ - ۱ - مذ) پیانو
 بجانے والا -

پیانو - (Piano) (پ - یا - نو) (۱) - مذ) (۱) انگ - ۱ - مذ) (۱) پیانو کی طرز کا ایک مغربی باجا
 پیانو - (پ - یا - نو) (۱) - مذ) (۱) پانی پینے کی جگہ (۲) سیل -
 پیسپ - (س - ا - مٹھ) مواد - نرم سفید مادہ جو پورٹوں اور زخموں میں پڑھانا ہے
 پیسپ پڑنا - (۱) - محاورہ) زخم کا پکنا - روحانی اذیت ہونا -

پیسا - (پلی - یا) - (۱) - مذ) (۱) انگ - ۱ - مذ) (۱) پانی یا سے بنا ہوا - ککڑی یا دھات
 کا بڑا برتن - ککڑی -

پیسا بن جانا - پیسا ہونا - بہت موٹا ہونا -
 پیپر - (Paper) (پ - پے - پر) (۱) - مذ) (۱) کاغذ - پرچہ - پرچہ
 اخبار - کوٹھ -

پیپر ویٹ - (Paperweight) کاغذوں کو دبانے کا وزن
 کاغذاب - وزن -

پیپرس - (Papyrus) (۱) - مذ) زرخیز کی قسم کا پودا جو پانی
 میں ہوتا ہے - اس کی پھال سے بنے ہوئے ورق جن پر قدیم مصری
 لکھا کرتے تھے (۲) کوئی تحریر یا کتاب جو ان ادواق پر لکھی ہو -
 پیپر منٹ - (Pappermint) سنت پودینہ کی گولیاں -

پیپل - (پلی - پیل) - وہ - ۱ - مذ) (۱) ایک سایہ دار درخت جس کے پتے چکنے ہوتے
 ہیں (۲) ایک پھل جو دو اکے طور پر کام آتا ہے - فلفل دراز -

پیپلا - (پیب - لا) - وہ - ۱ - مذ) (۱) توار کی ٹوک یا آئی -
 پیپلا مور - پیپلا مول - پیپلا مورٹ - (پیب - لا - مور) (پیب - لا - مول)
 (پیب - لا - مورٹ) - وہ - ۱ - مٹھ) (۱) پھل یعنی فلفل دراز کی بڑ -

پیپلی - (پیب - لی) - وہ - ۱ - مٹھ) (۱) پیپل کا پھل (۲) پیپل کا پھوٹا درخت -
 پیٹ - (۱) - مٹھ) (۱) محبت - دوستی - عشق - پیار - اخلاص (۲) زرد -
 پیٹ کی ریست نرالی - دوستی کا انداز ہی نرالا ہے - محبت کا طریق
 ہی اور ہے -

پیٹ نہ جانے جات کجات - (۱) بشل) محبت میں ذات نہیں دیکھی
 جاتی - محبت میں ذات پات کی قید نہیں -

پیٹا با - پیٹا وا - (پے - تا - با) (پے - تا - وا) (۱) - مذ) (۱) بڑا پیٹ کو جوٹے
 میں رکھتے ہیں (۲) پاتا بہ - موزہ -
 پیٹام بر - (پلی - تام - بر) - وہ - ۱ - مذ) (۱) زرد رنگ کا لکڑی کا پتلا (۲) زرد پوش
 (۳) لکڑی دھوک -

پیٹیرا - (پیت - را) - وہ - ۱ - مذ) (۱) لکڑی کے داؤں کرتے وقت کا ٹھاٹھ (۲)
 پاؤں کا نشان - کھوج - سڑخ - اثر -

پیٹیرا ابلنا - (۱) - محاورہ) (۱) ٹھاٹھ بدلنا - قدم بدلنا (۲) لکڑی کے وقت قاصد
 کے موافق پاؤں رکھنا اور اٹھانا - فن سیرگری دکھانا -

پیٹ پٹاری مینہ سیاری۔ (۱) ایشل، بظاہر ڈبلا پتلا گر بیت کھانے والا۔
 پیٹ پر پتھر یا ندھنٹا۔ (۱) محاورہ) فالتے کی تکلیف برداشت کرنا۔
 پیٹ پیکار رہا ہے۔ (۱) محاورہ) بہت زور کی جھوک لگی ہے۔
 پیٹ پکڑ کر بھاگنا۔ (۱) گھبرا کر بھاگنا (۲) دل کو لگانا۔
 پیٹ پکڑ کر ہنستا۔ (۱) محاورہ) بہت ہنستا۔
 پیٹ پوٹھا۔ (۱) مٹا، پیٹ ہنزا، شکم سیری۔
 پیٹ پوٹھے) کھائے پھرنا۔ (۱) محاورہ) پریشان پھرنا، آپے میں نہ رہنا۔
 پیٹ پوٹھن۔ پیٹ کھوٹھن۔ آخری اولاد۔
 پیٹ پھانٹنا۔ (۱) شکم چاک کرنا (۲) ترس کرنا (۳) نظر لگانا (۴) کام میں جلدی کرنا (۵) حسد کرنا (۶) دل کا بھید ظاہر کرنا (۷) انکار کرنا (۸) لٹنے کو تیار ہونا (۹) حسد لینے میں جلدی کرنا۔
 پیٹ پھلٹنا۔ (۱) محاورہ) (۱) شکم چاک ہونا (۲) بے صبر ہونا (۳) ہنسی کے مارے بے تاب ہونا (۴) حسد اور رشک کرنا (۵) چاولوں کا پھول کر شوق ہونا۔
 پیٹ پھلانا۔ (۱) محاورہ) (۱) پیٹ کو سانس سے اُونچا کرنا (۲) حاملہ ہونا (۳) کھانے کی آواز پر تیار ہو کر بیٹھنا (۴) بہت لالچ کرنا۔
 پیٹ پھولنا۔ (۱) محاورہ) (۱) پھر جانا۔ نفع ہونا (۲) بے چین ہونا۔ (۳) حمل سے ہونا۔
 پیٹ پینا۔ (۱) محاورہ) (۱) پیٹ بجانا (۲) جھوک کے مارے شور مچانا (۳) بے قراری ظاہر کرنا (۴) ہوس کرنا۔
 پیٹ پیٹھ سے لگن۔ (۱) محاورہ) بہت ڈبلا ہونا۔ نہایت جھوکا ہونا۔
 پیٹ تو سب کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ (۱) متولدہ) ہر ایک کو کھانے کی ضرورت ہے۔
 پیٹ ٹھنڈا رہنا۔ (۱) محاورہ) اولاد سے خوش رہنا۔ اولاد کا زندہ رہنا
 پیٹ جاری ہونا۔ پیٹ چھوٹنا۔ (۱) محاورہ) دست آنا۔ دست کی بیماری
 پیٹ بھاڑنی۔ مٹاب (ق)۔
 پیٹ چپانی ہو جانا۔ (۱) محاورہ) (۱) پیٹ نہایت ظالم ہو جانا (۲) جھوک سے پیٹ بیٹھ جانا۔
 پیٹ چوٹی۔ (۱) صف) مٹا، وہ حاملہ عورت جس کا حمل ظاہر نہ ہو۔
 پیٹ دکھانا۔ (۱) محاورہ) (۱) افسوس اور جھوک کی شکایت کرنا (۲) دانی سے حمل کی شناخت کرنا۔
 پیٹ ڈالنا۔ (۱) محاورہ) حمل گرانا۔
 پیٹ رکھانا۔ (۱) محاورہ) (۱) حاملہ کرنا (۲) حاملہ ہونا۔
 پیٹ سے پاؤں نکالنا۔ (۱) محاورہ) (۱) بد راہ ہونا (۲) بڑھ چلنا، پر پرزے نکالنا۔ بد روشنی ظاہر کرنا۔ چھپے ہوئے عیب یا ہنر ظاہر کرنا۔
 پیٹ سے ہونا۔ (۱) محاورہ) حمل ہونا۔
 پیٹ کا پتھر۔ (۱) مذ) (۱) اپنی اولاد۔ سگاپتھر (۲) وہ پتھر جو ابلی تک پیدا نہ ہوا ہو۔
 پیٹ کا بندہ۔ (۱) مذ) حریف۔ لالچی۔
 پیٹ کا پانی نہ ہلنا۔ (۱) محاورہ) بے تکان جانا۔ سواری میں جنبش اور

تکلیف نہ ہونا۔
 پیٹ کا پردہ۔ (۱) مذ) آنتوں کی جھلی۔ ادھڑی۔
 پیٹ کا ٹٹا۔ (۱) محاورہ) (۱) کفایت کرنا (۲) کم کھا کر گزار کرنا (۳) جھوکا مارنا۔
 پیٹ کا جلا گاڈل جلائے۔ (۱) ایشل) جھوکا آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔
 پیٹ کا دھندا۔ (۱) مذ) محنت۔ مزدوری۔ نگر معاش۔
 پیٹ کا گٹا۔ (۱) جمع) نہایت لالچی۔ کھانے پر جان دینے والا۔ بندہ شکم۔
 پیٹ کا کھایا کوئی نہیں دیکھتا۔ تن کا پھنسا سب دیکھتے ہیں۔ (ایشل) ظاہر سب دیکھتے ہیں، لیکن باطن کو کوئی نہیں دیکھتا۔
 پیٹ کا گہرا۔ (۱) محاورہ) راز چھپانے والا۔ بھید ظاہر نہ کرنے والا۔
 پیٹ کا ہلکا۔ (۱) محاورہ) تنگ ظرف جو بھید کو چھپانے سکے۔
 پیٹ کا گڑا گڑانا۔ (۱) محاورہ) خوف سے پیٹ کا بولنا۔
 پیٹ کی آگ) آج۔ (۱) مال کی محبت (۲) اولاد۔ بال بچے (۳) جھوک۔ اشتہا۔
 پیٹ کی آگ بجھانا۔ (۱) محاورہ) جھوک دُور کرنا۔
 پیٹ کی مار دینا۔ (۱) محاورہ) جھوک کی سزا دینا۔
 پیٹ کے لیے دوڑنا۔ (۱) محاورہ) تلاش معاش میں پھرنا۔
 پیٹ گد رانا۔ (۱) محاورہ) حمل کے آثار ظاہر ہونا۔
 پیٹ گرنہ۔ (۱) محاورہ) حمل جاتا رہنا۔ اسقاط حمل ہونا۔
 پیٹ لگ جانا۔ (۱) محاورہ) جھوک کے مارے پیٹ کا اندر کو دھنسا جانا۔
 پیٹ مارنا۔ (۱) محاورہ) (۱) کھانے میں کمی کرنا (۲) نقش کشی کرنا۔
 پیٹ مڑورا۔ (۱) صف) مزدور۔ بھائے کا (ق)۔
 پیٹ مسوس کر رہ جانا۔ (۱) محاورہ) پیچ و تاب کھانا۔
 پیٹ میں آگ لگنا۔ (۱) محاورہ) جھوک سے بیزار ہونا۔
 پیٹ میں آنت نہ مٹنے میں دانت۔ (دش) نہایت ضعیف العمر۔ بُوڑھا پیونس۔
 پیٹ میں انگارے بھرنا۔ (۱) محاورہ) حرام کا مال کھانا۔
 پیٹ میں بات رکھنا۔ (۱) محاورہ) راز چھپانا۔ بھید مخفی کرنا۔
 پیٹ میں بات نہ سمانا۔ (۱) محاورہ) بھید نہ چھپا سکا۔
 پیٹ میں بل پڑنا۔ (۱) محاورہ) ہنسی کے باعث پیٹ میں شکن پڑنا۔
 پیٹے ہنستے پیٹ کا ڈبیرا ہو جانا۔
 پیٹ میں (دبھٹنا) کھٹنا۔ (۱) محاورہ) پیٹ میں کھٹنا۔ دوست بن کر مطلب نکالنا۔ خوش مد کرنا۔
 پیٹ میں پالنا۔ (۱) محاورہ) کوئی بات دل میں رکھنا۔ فکر ہونا۔
 پیٹ میں پاؤں ہونا۔ (۱) محاورہ) بہت سکار ہونا۔
 پیٹ میں پڑا اجاہر تو کو دینے لگا بجا را۔ (دش) (۱) کھانا تو حیات آگئی، (۲) روٹی لگتی تو سترت کی سُو بھنے آگئی۔
 پیٹ میں پڑی جب دُور کی سُوھی م (۱) ایشل) پیٹ بھرا ہو تو عجیب جھوک لگی تند دُور کی سُوھی { عجیب باتیں سُو بھتی ہیں اور جھوکے کو روٹی کی فکر رہتی ہے۔

پیٹ پڑے تو عبادت کی سوجھے۔ (۱- ش) جھوک سے عبادت بھی نہیں ہو سکتی۔

پیٹ میں جو ہوں کا تلا بازیاں کھانا۔ (دیش) جھوک سے بترار ہونا۔ پیٹ میں پوٹھے (پھوٹنا) ڈوڑنا۔ (۱- محاورہ) (۱) خوف کے باعث اضطراب و بتراری کا ہونا (۲) جھوک سے بترار ہونا۔

پیٹ میں چیونٹے کی گرہ ہونا۔ (۱- محاورہ) نہایت کم خوراک ہونا۔

پیٹ میں ڈاڑھی ہونا۔ (۱- محاورہ) کسی میں عقلمندی کی باتیں کرنا۔ پیٹ میں رکھنا۔ (۱- محاورہ) راز مخفی رکھنا۔ عیب ظاہر نہ کرنا۔

پیٹ میں سانس نہ سمانا۔ (۱- محاورہ) سانس پھول جانا۔ تھک جانا۔ (۲) سخت گھبرانا۔

پیٹ میں سے پاؤں نکالنا۔ (۱- محاورہ) (۱) فومرول کا نسنے نسنے گن سیکنا (۲) بد راہی اور بد اطواری۔

پیٹ میں کھلی پڑنا، پینا۔ (۱- محاورہ) گھبراہٹ ہونا۔ اضطراب ہونا۔ پریشان ہونا۔

پیٹ میں گن بھرے ہونا۔ (۱- محاورہ) باطن میں شرارت ہونا۔

پیٹ میں گھوڑے ڈوڑنا۔ (۱- محاورہ) قرار تو ہونا، پیٹ میں گڑ بڑ ہونا۔

پیٹ میں ہول سمانا۔ پیٹ میں ہول سی اٹھنا۔ (۱- محاورہ) پریشان ہونا۔ بہت گھبرانا۔

پیٹ والی۔ (۱- صف) (۱) حاملہ۔ زن بارور (۲) کھانے پینے کی سرچیز بردل لگانے والی۔

پیٹ سے یا بے ایمان کی قبر۔ (دش) بہت بڑی خوراک کھانے والا۔ پیٹا۔ (پے) (ٹا) (۱- مذ) (۱) گولائی۔ محیط۔ دُور (۲) شکل یا کھوے کی

دُور کا جھول (۳) تقریباً۔ تخمیناً (۴) دریا کے بہنے کا راستہ (۵) تفصیل حساب جو ایک ند کے اندر کھسی جائے (۶) دریا کا پاٹ۔

(۷) ادھڑی (۸) کتاب کا متن (۹) فاصلہ۔ دُوری (۱۰) قابو۔ بس۔ (۱۱) (بن) بانا۔

پیٹا چھوڑنا۔ (۱- محاورہ) کھوے کی دُور کا جھول دینا۔

پیٹا۔ (پی) (ٹا) (۱- معنی) (۱) نامناسب۔ بے جا (۲) پینا کی ماضی۔

پیٹا پانی۔ زور شور کا بیٹہ۔

پیٹ پیٹ کر۔ (۱) بڑی مشکل سے (۲) مار مار کر۔

پیٹرن۔ (Patron) (پیٹ-زن) (انگ-۱- مذ) مرئی۔ سرپرست۔ حامی۔

پیٹک پتیا۔ (پی-ٹک-پی) (یا) (۱- مذ) فوج۔ ماتم کھرام۔ جھگڑا۔

پیٹیل۔ (پے) (ٹل) (۱- صف) بڑے پیٹ والا۔ توڑل۔

پیٹینا۔ (پیٹ-نا) (۱- معنی) (۱) مارنا۔ چوٹ لگانا (۲) ماتم کرنا۔ (۳) چوکرا کرنا۔ پیٹ کرنا (۴) سخت محنت کرنا (۵) حاصل کرنا (۶) اندیشہ کرنا (۷) بُرا چاہنا۔ کسی کی موت چاہنا (۸) مہرہ مارنا (۹) دکھ اُردنا۔

پیٹینٹ۔ (Patent) (پے-ٹنٹ) (انگ-۱- مذ) رجسٹری شدہ ایجاد جس کو دوسرا نہ بنا سکے

پیٹو۔ (پے) (ٹو) (۱- صف) بہت کھانے والا۔ بسیار خور۔

پیٹو۔ (پی) (ٹو) (۱- صف) ماتم میں سینا اور سر کو بہت کھانے والا۔

پیٹو۔ (۱- مش) (۱) پشت (۲) حمایت۔ (۳) سہارا۔ (۴) پناہ (۵) پیچھے (۶) گردن اور کر کے درمیان جسم کا پچھلا حصہ۔ ہر چیز کا بالائی حصہ۔

پیٹو پرکا۔ (۱- صف) (۱) مذ (۲) بعد کا۔ وہ بچہ جو کسی بچے کے بعد پیدا ہوا ہو (۳) چھوٹا بھائی۔

پیٹو پر لاکھ پھیرنا۔ (۱- محاورہ) شاباش دینا۔ ہمت بندھانا جو صلہ بڑھانا توریف کرنا۔

پیٹو پر لاکھ دکھنا۔ (۱- محاورہ) سرپرستی کرنا۔ حمایت کرنا۔

پیٹو پر ہونا۔ (۱- محاورہ) (۱) مددگار ہونا۔ حمایت کرنا (۲) ایک بچے کے بعد دوسرے بچے کا ہونا۔

پیٹو پھیرنا۔ (۱- محاورہ) (۱) پیٹھ موڑنا۔ جانا (۲) مرنا۔ انتقال کرنا (۳) لڑائی سے بھاگنا (۴) بیزاری یا نفرت کے باعث دوسری طرف مڑ کر لینا۔ (۵) دوسری طرف مڑ پھیر کر پھٹنا۔

پیٹو پھیرنا۔ (۱- محاورہ) مڑ دیکھ کر خوش آمد نہیں۔ موجود نہیں۔

پیٹو پیٹھے۔ (۱) نسبت میں۔ خیر معاضی میں (۲) مرنے کے بعد۔

پیٹو پیٹھے بادشاہ کو بھی بُرا کہتے ہیں۔ (۱- ش) لوگ بادشاہ کی نسبت بھی کرتے ہیں۔

پیٹو پیٹھے ڈال دینا۔ (۱- محاورہ) بے پردائی کرنا۔

پیٹو توڑنا۔ (۱- محاورہ) دوس کرنا۔ ناپسند کرنا۔ ہمت توڑنا۔

پیٹو ٹھوٹنا۔ (۱- محاورہ) شتاباش دینا۔ ہمت بندھانا۔ دلاسا دینا۔

پیٹو چار پائی سے لگ جانا۔ (۱- محاورہ) پیاری یا کمزوری کے باعث پیاری سے اٹھ نہ سکا۔ صاحب فرخ ہو جانا۔

پیٹو دکھانا۔ (۱- محاورہ) (۱) منہ موڑنا۔ لڑائی سے بھاگ جانا۔ چھوڑ دینا۔ (۲) سفر کر جانا۔

پیٹو دینا۔ (۱- محاورہ) (۱) منہ موڑنا۔ دعا دینا (۲) لڑائی سے بھاگ جانا۔ (۳) مر جانا۔

پیٹو سیدھی کرنا۔ (۱- محاورہ) لیٹنا۔ آرام کرنا۔ ذرا دیر ستانے کے لیے لیٹ جانا۔

پیٹو کا کچا۔ (۱- محاورہ) وہ جانور جس کی پیٹھ سواری کرنے یا بوجھ لادنے سے جلد زخمی ہو جانے۔

پیٹو لگنا۔ (۱- محاورہ) (۱) پیٹھ میں زخم ہو جانا (۲) گشتی میں چبت ہو جانا۔ پچھڑنا۔

پیٹو نہ لگنا۔ (۱- محاورہ) آرام نہ پانا۔ تڑپنا۔ بے قرار رہنا۔

پیٹو۔ (۱- مذ) (۱) دغل۔ رسائی (۲) وہ بازار جو آٹھویں دن مغرہ بگھوں پر لگتا ہے (۳) نقل۔ گم شدہ ہندو کی نقل۔

پیٹھا۔ (پے) (ٹھا) (۱- مذ) گول کدو سے مشا بہ ایک پھل جس کی مٹائی اور مرتبہ بنتے ہیں۔

پیٹھانا۔ (پے) (ٹھا) (۱- معنی) (۱) پھینا۔ رخصت کرنا۔

پاپٹھنا۔ (پہلے۔ نا) (۵۔ مص) (۱) گھٹنا۔ داخل ہونا (۲) جہن۔ گرنا۔

پچھلی۔ (پہلی۔ غنی) (۵۔ امث) ماش اور سوگ وغیرہ کی پانی میں ہسی ہوئی دال۔

پٹی۔ (پے۔ ٹی) (۵۔ ۱۔ مٹ) (۱) ٹیکا۔ کر بند (۲) نقدی وغیرہ رکھنے کا صندوق (۳) خرچی۔ جامہ دانی (۴) وہ دور جو قبل یا بعد کی کر میں باندھتے ہیں (۵) بندوق کے سامان رکھنے کا بکس (۶) سینے کا استر (۷) وہ کپڑا جو پتے ہونے کے بعد زچہ کی کر سے باندھا جاتا ہے۔

پٹی اترنا۔ (۱) محاورہ) سپاہی کا مورق ہو جانا۔

پٹی باندھنا۔ (۱) سپاہی کا کر باندھ کر مستعد ہونا۔ کرکنا (۲) دست آموز جانور کی کر میں ڈورا باندھنا۔

پٹی لڑانا۔ (۱) محاورہ) جماع کرنا۔

پٹینا۔ (پٹ۔ یا) (۵۔ ۱۔ مذ) ایک آدمی کی کچی خوراک۔ رسد۔ ردا۔ روزینہ۔ وظیفہ۔

پٹے میں اٹھانا۔ (۱) محاورہ) زیر بار ہونا۔

پٹے میں پڑنا۔ (۱) محاورہ) تابو میں ہونا۔ بس میں ہونا۔ ڈنٹے ہونا۔

پتج۔ (Page) (۱) انگ۔ (۱) مذ (۱) صفحہ۔ ورق کا ایک رُخ۔

پیجامہ۔ (پے۔ جامہ) (ف) (۱) مذ یا جامہ۔ ازار۔

پی جانا۔ (۵۔ مین) (۱) فوش کر لینا۔ پڑھ لینا (۲) چُپ ہو لینا۔ ٹال جانا۔

پیج۔ (ف) (۱) مٹ (۱) بل۔ لپیٹ (۲) چوڑی۔ پرزہ۔ وہ کیل جس کی جوڑیاں

کئی ہوں (۳) چکر۔ پھیرا (۴) تم (۵) مردڑا۔ درد شکم (۶) رشک و حسد۔

(۷) عقدہ (۸) ایک قسم کا کیل (۹) مشکل۔ دقت (۱۰) فریب۔ دھوکا۔

(۱۱) گھٹی کا داؤ (۱۲) دبانے کی کل (۱۳) بگڑی کی لپیٹ (۱۴) لنگوے

کی ڈور کا دوسرے لنگوے کی ڈور سے اُٹھنا (۱۵) گرہ۔ چھندا (۱۶)

پتی بگڑی۔ پتی۔

پیج اٹھنا۔ (۱) محاورہ) (۱) پیٹ میں پیچش سے درد ہونا (۲) لنگوے بڑھنا یا اُڑانا۔

پیج باندھنا۔ (۱) محاورہ) گھٹی کے داؤں کا توڑ کرنا۔ جواب دینا۔

پیج پانچ کی بائیں۔ (۱) مذ چالاک کی بائیں۔ شرارت کی بائیں۔

پیج پر پیج اٹھانا۔ (۱) محاورہ) رنج پر رنج سہنا۔ مشکل پر مشکل پیش آنا۔

پیج پر پیج پڑنا۔ (۱) محاورہ) مشکل پر مشکل پڑنا۔

پیج پر پیج کھانا۔ (۱) محاورہ) غصے سے متیاب ہونا۔

پیج پر پیج پڑنا۔ (۱) محاورہ) گھٹی کے داؤں میں دوسرے کو لانا۔

پیج پڑنا۔ (۱) اُٹھنا۔ بگڑ پڑنا (۲) سخت مشکل پیش آنا (۳) ایک پتنگ

کا دوسرے پتنگ سے اُٹھنا (۴) مزاحمت پیش آنا۔

پیج چلنا۔ (۱) محاورہ) (۱) دھوکے یا فریب سے کامیاب ہونا (۲)

دھوکا دینا۔

پیج چھلنا۔ (۱) محاورہ) لنگوے کی بازی میں ایک کی ڈور کا دوسرے کی

ڈور سے علیحدہ ہونا۔

پیج چھلنا۔ (۱) محاورہ) بگڑی کے پتوں کو احتیاط سے درست کرنا۔

پیج دار۔ (ف) (ف) (۱) بل دار (۲) پیچیدہ۔ مشکل۔ دقت۔

پیج در پیج۔ (ف) (ف) (۱) بل پر بل پڑا ہوا۔ نہایت پیچیدہ (۲) عقدہ ملائیل۔ نہایت مشکل۔

پیج ڈالنا۔ (۱) محاورہ) (۱) داؤں کرنا (۲) حال چلنا۔ اُٹھانا (۳) شکل میں چھنا نا (۴) دوسرے کے لنگوے پر ڈور ڈالنا (۵) شرارت کرنا۔

پیج کاٹنا۔ (۱) محاورہ) لنگوے کی ڈور کاٹنا۔

پیج کرنا۔ (۱) محاورہ) (۱) گھٹی کا داؤں کرنا۔ دھوکا دینا (۲) پتنگ کا پیج لڑنا۔

پیج کھانا۔ (۱) محاورہ) (۱) بل کھانا (۲) دل ہی دل میں غصتہ کرنا۔

پیج کھلنا۔ (۱) محاورہ) (۱) بل دور ہونا۔ بگڑی کا پھیر کھلنا (۲) شکل حل ہونا (۳) جھید کھلنا۔

پیج کھیلنا۔ (۱) محاورہ) (۱) داؤں کرنا (۲) فریب دینا۔

پیج کی بات۔ (۱) بل حال (۲) ذمینی بات۔ ایسی بات جس سے کئی معنی نکلنے ہوں

پیج لڑانا۔ (۱) محاورہ) لنگوے لڑانا۔ ایک پتنگ کی ڈور کا دوسرے پتنگ

کی ڈور سے اُٹھانا۔

پیج میں آنا۔ (۱) محاورہ) (۱) مصیبت میں پھنسا۔ پھیر میں آنا (۲) دھوکے میں

چھننا (۳) پھندے میں آنا۔ حال میں پھنسا۔

پیج و تاب۔ (ف) (۱) مذ (۱) بل (۲) عقدہ (۳) بے قراری۔ بے مہین۔

(۴) ٹکڑا اندیشہ۔

پیج و تاب کھانا۔ (۱) محاورہ) (۱) پٹنا۔ بل کھانا (۲) اندر ہی اندر غصتہ سے

کھنا۔ حسد یا رشک سے چلنا (۳) بے قرار ہونا۔ مضطرب ہونا۔

پیج وجم۔ (ف) (۱) مذ۔ چکر۔ بل پھیر۔

پیچا۔ (۵) مذ۔ پتنگ کا پیج (۲) لپیٹ۔ بل۔ چکر۔

پیج پیچھ۔ (۵۔ امث) اُٹے ہوئے چادوں کا پانی۔ چادوں کا پساؤ۔

پیج پی ہزار نعمت کھاٹی۔ (۱) پتنگ کھانے کو جو کھل گیا غنیمت ہے۔

اسی پر مبر شکر کرنا چاہیے۔

پیچاک۔ (پے۔ چاک) (ف) (۱) مٹ (۱) پیج دم (۲) طرہ زلف۔

(۳) گھونگا۔

پیچال۔ (پے۔ چال) (ف) (۱) مٹ (۱) بل کھایا ہوا۔ پیچیدہ۔

پیچش۔ (پے۔ چش) (ف) (۱) مٹ (۱) مردڑ۔ درد ہو کر دست۔ پاخانہ یا

آز آنا۔

پیچک۔ (پے۔ چک) (ف) (۱) مٹ (۱) پٹے ہوئے سوت کی ریل۔

(۲) پیج دار۔ نال کا پیچہ۔

پیچکش۔ (پیج۔ کش) (ف) (۱) مذ (۱) پیج کھولنے کا آلہ۔

پیچکو۔ (پے۔ چو) (۵۔ ۱۔ مذ) ایک قسم کا آٹو۔ زرد آٹو۔ کر بل کا پتنگ پھل۔

پیچوال۔ (پیج۔ وال) (ف) (۱) مذ (۱) ایک قسم کا حقہ جس کی نے پگھلا اور

بہت لاشی ہوتی ہے۔

پیچھا۔ (پے۔ چھا) (۱۔ ۵۔ ۱۔ مذ) (۱) پچھلا حقہ۔ یثنت۔ عقب (۲) پیروی۔ تعاقب۔

پیچھا بھاری ہونا۔ (۱) محاورہ) (۱) پس یثنت امداد کا موجود ہونا (۲) بعد میں

مشکل در پیش آنا (۳) دشمن کی مدد آجانا۔

پیچھا پکڑنا۔ (۱) محاورہ) (۱) ستانا۔ ایذا رسانی کے درپے ہونا (۲) ہر وقت

ساتھ رہنا۔

پیچھا پھٹنا۔ (۱) عمارت، نجات ملنا۔ مخلصی ہونا۔ جان بچنا۔

پیچھا پھڑانا۔ (۱) عمارت، نجات حاصل کرنا۔ مخلصی پانا۔ پھینکا ہونا۔ جان بچانا۔

پیچھا کرنا۔ (۱) عمارت، نجات حاصل کرنا (۲) حق کرنا۔ ستانا (۳) دوسرے ہونا۔

پیچھا نہ چھوڑنا۔ (۱) عمارت، ساتھ نہ چھوڑنا۔ سر ہونا۔ جان کو اتنا۔ ہزار کی طرح ساتھ رہنا۔ درپے آزار ہونا۔

پیچھے۔ (پلے۔ چھے) (۱) صف (۲) بعد میں۔ عقب میں (۳) غیر حاضری میں۔

(۳) پھر (۴) وجہ سے (۵) ہر ایک۔ فی (۶) پھیلی طرف (۷) اس کے

بعد (۸) مرنے کے بعد۔

پیچھے بلا لگنا۔ (۱) عمارت، صحبت میں پڑنا۔

پیچھے پڑنا۔ (۱) عمارت، (۲) پلٹنا۔ سر ہونا (۳) ستانا۔ حق کرنا (۴)

دشمنی کرنا (۵) بار بار مانگنا (۶) رسوائی چاہنا۔

پیچھے پھرنا۔ (۱) عمارت، لوٹنا۔ واپس ہونا۔ مڑنا۔

پیچھے پیچھے۔ (۱) تھوڑی دیر بعد، متفرق (۲) ساتھ ساتھ۔

پیچھے ڈالنا۔ (۱) عمارت، (۲) عقب کرنا (۳) پیچھے دوڑنا۔ پیچھے چھوڑنا۔

(۴) تھوڑا تھوڑا بچا کر جمع کرنا۔

پیچھے سے۔ (۱) پشت سے (۲) بعد ازاں، تھوڑی دیر بعد۔

پیچھے لگا دینا۔ (۱) عمارت، مخالفت بنا دینا (۲) ساتھ کر دینا۔

پیچھے ہولینا۔ (۱) عمارت، (۲) پیروی کرنا (۳) عقب میں چلنا۔

پیچھیلگی۔ (پلے۔ چھی۔ ڈگی) (۱) صفت (۲) اہمیت (۳) اہمیت۔ بل۔ مروڑ (۴)

الٹھرا۔ الجھاؤ۔

پیچھیدہ۔ (پلے۔ چھی۔ ڈگی) (۱) صفت (۲) پشیمان ہونا۔ مٹوٹ (۳) مشکل۔

وقت طلب۔

پینچال۔ (پلے۔ خال) (۱) صفت (۲) اہمیت۔ پرند کا فنڈ۔

پینچانہ۔ (پلے۔ خانا۔ نہ) (۱) صفت (۲) اہمیت (۳) جائے ضرور۔ بیت الخلاء (۴)

فصل۔ براز۔ گو۔

پیدا۔ (پلے۔ ڈہ) (۱) صفت (۲) ظاہر۔ موجود (۳) جنا ہوا۔ زائیدہ (۴)

آمدنی۔ کمانی (۵) ایجاد۔ اختراع۔

پیداوار۔ (۱) زراعت و صنعت کا حاصل۔ حاصل (۲) وہ چیز جو حکمت

میں اگے یا کاٹھانے میں تیار ہو۔ فصل۔ زراعت۔

پیداوار خودرو۔ (۱) صفت، وہ پیداوار جو بوٹے جوتے بغیر اگ آئے۔

پیداواری۔ پیداوار۔

پیدائش۔ (پلے۔ دا۔ اش) (۱) صفت (۲) اہمیت (۳) جنم۔ خلقت۔

پیدائشی۔ (پلے۔ دا۔ ا۔ شی) (۱) صفت (۲) اصلی۔ فطری۔ خلقی۔ ولادت

کے وقت سے۔

پلے درپلے۔ (۱) متواتر۔ لگاتار، اُپر تلے (۲) یکے بعد دیگرے۔

ایک کے بعد ایک۔

پیدل۔ (پلے۔ دل) (۱) صفت (۲) پیادہ۔ وہ شخص جو سوار نہ ہو (۳) شطرنج

کا وہ ادنیٰ ہرہ جو ایک ٹھہر سہا چلنا اور آڑا تار سے (۴) پیادوں کی فوج

پیدل اور سوار کا کیا ساتھ۔ (۱) پیدل اور سوار عزیز کا کیا جوڑ۔

پیڈ۔ (Pad) (انگ۔ ۱۔ مذ) (۱) سیاہی چوس۔ جاذب (۲) جاذب رکھنے اور کاغذات رکھ کر رکھنے کا بیٹھا (۳) بوٹ صاف کرنے کی چھوٹی گدھی (۴) کپڑے کی گدھی۔

پیڈ۔ (Paid) (انگ۔ صفت) (۱) ادا کردہ۔ وہ رقم یا محصول وغیرہ جو ادا کر دیا گیا ہو۔

پیڈل۔ (Paddle) (پلے۔ ڈل) (انگ۔ ۱۔ مذ) (۱) بائیسکل۔ بیانوادر

سینے کی شین کا وہ پھیلا جتے جسے پاؤں سے چلاتے ہیں۔

پیپر۔ (۱) صفت (۲) عمر رسیدہ۔ مٹھرا۔ بوڑھا (۳) نادب۔ رہنما۔ مُرشد (۴) دل۔ بزرگ (۵) اُردو شریروں کا استاد (۶) دو شنبہ۔ سوموار۔

پیپر بھائی۔ (۱) مذ۔ ایک پیر کے مرید۔

پیپر بھڑائی۔ (۱) مذ۔ بھڑوں کا پیر۔

پیپر بھڑائی کی کڑھائی۔ (۱) صفت (۲) بھڑوں کے پیر بھڑائی کے فاتح کا

حلا جو کسی کو بھڑا بنانے وقت یہ روگ بنا کر آپس میں تقسیم کرتے ہیں۔

پیپر تسمہ یا۔ (۱) صفت (۲) پیچھا نہ چھوڑنے والا۔

پیپر تو آپ ہی در ماندہ شفاعت کس کی کریں (۱) پشیل (۲) جو خود محتاج

ہے وہ دوسروں کو کیا نفع پہنچائے گا۔

پیپر خراباٹ۔ (۱) صفت (۲) شراب خانے کا مالک (۳) صوفیوں کی اصطلاح ہیں مُرشد کامل۔

پیپر دیدار کا کوٹھارا۔ (۱) مذ۔ ایک فرضی ولی کے نام کا کوٹھا جسے عورتیں کسی

عزیز کے سفر سے واپس آنے کے لیے مانتی ہیں۔

پیپر زادہ۔ (۱) صفت (۲) مُرشد کا بیٹا (۳) وہ شخص جس کے ماں بزرگوں

سے پیروی مریدی ہوتی چلی آ رہی ہو۔

پیپر زوال۔ (۱) صفت (۲) بڑھی عورت۔ بڑھیا۔

پیپر زون۔ (۱) صفت (۲) بوڑھی عورت۔ بڑھیا۔

پیپر شو بیا موز۔ (۱) پشیل (۲) انسان کو چاہیے کہ ساری عمر سیکھتا رہے۔ بڑھاپے

میں بھی سیکھنا ضروری ہے۔

پیپر طریقت۔ (۱) صفت (۲) صوفیوں کا پیر (۳) مُرشد۔

پیپر فرقت۔ (۱) صفت (۲) بہت بوڑھا۔ شیخ۔

پیپر فلک۔ (۱) صفت (۲) پُرانا ہونے کی وجہ سے آسمان کو کہتے ہیں۔

پیپر گرنا۔ مُرشد بنانا۔ نادب تسلیم کرنا۔

پیپر گشال۔ (۱) صفت (۲) رکنیت حضرت یعقوب علیہ السلام۔

پیپر کو نہ فقیر کو پہلے کانے چور کو۔ (۱) پشیل (۲) اُس وقت کہتے ہیں جب

کوئی غیر اپنے آپ کو محتادوں پر مقدم رکھنا چاہے۔

پیپر کی پیروی سے کام پیر کے فعلوں سے کیا کام۔ (۱) پشیل (۲) بزرگ

کی بڑائی سے مطلب ہے اُس کے افعال کی تحقیقات بیکار ہے۔

پیپر مرد۔ (۱) صفت (۲) بوڑھا آدمی۔ ضعیف۔ عمر رسیدہ۔

پیپر مٹال۔ (۱) آتش پرستوں کا پیشوا۔ آتش خانہ کا بھادر (۲) طنز (۳) گروگشال

مقدم (۴) شراب پیچنے والا۔

پیپر من جنس است اعتقاد من بس است۔ (۱) پشیل (۲) پیر کچھ نہیں نہ ہو

اعتقاد بڑی چیز ہے۔

پیرنا باغ - (ن. ع. ح. ذ) وہ بوڑھا جو نا سمجھ بچوں کی سی باتیں کرے۔

بے وقت بوڑھا۔

پیر و سرشد - (۱) بزرگ، اُستاد (۲) گرو (۳) بادشاہ اور رئیس کو عیناً اس لفظ سے خطاب کرتے ہیں۔

پیرا حیلے - (۱) عورتوں کے ایک فرضی پیر کا نام۔

پیر - (۱) - (۱) قدم - پاؤں (۲) سرخ - لکھونج - پاؤں کا نشان (۳) اناج صاف کرنے کی جگہ (۴) صاف نہ کیے ہوئے نلے کا ڈھیر (۵)

عیض جاری رہنے کی بیماری (۶) بیج - (۷) حق

پیر بھاری جوتنا - (۱) عمارت، حاملہ ہونا۔

پیر کا ناخن نہ دکھانا - (۱) عمارت، ذرا بھی سامنے نہ آنا۔

پیروں بڑھانا - (۱) عمارت، پیروں پر سر ہونا - منت خوشا مد کرنا (۲)

قدم لینا - آداب بجالانا۔

پیروں پیروں چلنا - (۱) عمارت، اپنے پاؤں سے چلنا - سواری کے بغیر

راستے طے کرنا - پیدل چلنا۔

پیروں میں سر دینا - (۱) عمارت، قدموں میں سر رکھنا - نہایت بجز کرنا۔

از حد خوشا مد کرنا۔

پیروں میں مہندی لگنا - (۱) عمارت، غدر بے جا کرنا - نامناسب جلد تراشنا۔

پیرا - (پے - رگ - وا) - (۱) - (۲) قدم کا لشگون - آنے کا لشگون۔

پیرا - (پے - رگ - وا) - (۱) - (۲) صاف سجانے والا - آناستہ کرنے والا - مرکبات کے

آخر میں آنا ہے جیسے چین پیرا - جمع پیرایاں -

پیرا - (پے - رگ - وا) - (۱) - (۲) صاف زرد - پیلا۔

پیرا سب - (پے - رگ - وا) - (۱) - (۲) صاف - صاف - صاف ہوا - آناستہ - مڑتین -

پیرا سٹوٹ - (Parachute) (پے - رگ - وا) - (۱) - (۲) ٹوٹ - (۱) - (۲) آنا

ما نظر پھرتی، جس کی مدد سے انسان ہوائی جہاز سے گود کر زمین پر

پہنچتا ہے۔

پیرا فین - (Paraffin) (پے - رگ - وا) - (۱) - (۲) آگ - (۱) - (۲) آگ

بے رنگ و بو مکی چیز جو پٹرول وغیرہ کو صاف کر کے بنا لی

جاتی ہے۔

پیراک - (پے - رگ - وا) - (۱) - (۲) پانی میں پیرنے والا - شادور - تیراک -

پیراک ہی ڈوبتا ہے - (پیش) ہوشیار ہی نقصان اٹھاتا ہے۔

پیرا کی - (پے - رگ - وا) - (۱) - (۲) آگ - (۱) - (۲) آگ - (۱) - (۲) آگ

پیرا گراف - (پے - رگ - وا) - (۱) - (۲) آگ - (۱) - (۲) آگ - (۱) - (۲) آگ

عبارت کا وہ لفظ جس میں ایک ہی معنوں ہو - اُردو میں صرف پیرا

بھی مستعمل ہے۔

پیرا من - پیرا من - (پے - رگ - وا) - (۱) - (۲) آگ - (۱) - (۲) آگ - (۱) - (۲) آگ

اطراف (۲) دائرہ بگھاؤ (۳) کپڑے کا دامن۔

پیرا من - (پے - رگ - وا) - (۱) - (۲) آگ - (۱) - (۲) آگ - (۱) - (۲) آگ

پیرا من پیرا - (۱) - (۲) حضرت محمد بن عبدالقادر جیلانی کا لقب۔

پیرا من کے برادر مریدان ہے پرانند - (پیش) پیر تو نہیں اُرتے - مرید

اُرتا ہے - پیرا من کے مرید مشہور کرتے ہیں - خوشامدی قبولی

تقریض کرتے ہیں۔

پیرا من - (پے - رگ - وا) - (۱) - (۲) آگ - (۱) - (۲) آگ - (۱) - (۲) آگ

پیرا من سالی - (ن. ع. ح. ذ) بڑھا پاپا پیری۔

پیرا من - (پے - رگ - وا) - (۱) - (۲) آگ - (۱) - (۲) آگ - (۱) - (۲) آگ

لباس - جامہ - کرتا۔

پیرا من کاغذی - (ن. ع. ح. ذ) فریادی کا لباس (۲) ناپا بیکار چیز۔

پیرا من لوصف - (ن. ع. ح. ذ) حضرت یوسف علیہ السلام کا وہ کرتا جو

آہوں نے اپنے اندھے باپ یعقوب کے لیے بھیجا تھا۔ اسے جب حضرت

یعقوب کے چہرے پر ڈالا گیا تو ان کی آنکھیں روشن ہو گئیں۔

پیرا ہوا - (پے - رگ - وا) - (۱) - (۲) آگ - (۱) - (۲) آگ - (۱) - (۲) آگ

پیرا ہوا - (پے - رگ - وا) - (۱) - (۲) آگ - (۱) - (۲) آگ - (۱) - (۲) آگ

پیرا منی - (پے - رگ - وا) - (۱) - (۲) آگ - (۱) - (۲) آگ - (۱) - (۲) آگ

کی اُمرت (۳) پیرا کی۔

پیرا منی - (پے - رگ - وا) - (۱) - (۲) آگ - (۱) - (۲) آگ - (۱) - (۲) آگ

بجانے والی ایک قوم۔

پیرا منی - (پے - رگ - وا) - (۱) - (۲) آگ - (۱) - (۲) آگ - (۱) - (۲) آگ

(۳) طرز - ڈھنگ - طریقہ۔

پیرا کوا - (پے - رگ - وا) - (۱) - (۲) آگ - (۱) - (۲) آگ - (۱) - (۲) آگ

ہوتا ہے اور کشتی کے نیچے چٹنا رہتا ہے (۲) چھوٹی جیسے چھل کے شکاری

جنسی کی ڈوریں باندھ دیتے ہیں جو پانی پر تیرتی رہتی ہے اور پھل کے

پھینسنے کو ہتھیاتی ہے۔

پیرا نا - (پیر - نا) - (۱) - (۲) آگ - (۱) - (۲) آگ - (۱) - (۲) آگ

جو جانا (۲) خیر - تلوار - چھری کا آرز پار جو جانا (۵) بیج - بونا - (۶) حق -

پیرا - (پے - رگ - وا) - (۱) - (۲) آگ - (۱) - (۲) آگ - (۱) - (۲) آگ

مرید چیللا۔

پیرا و کار - (ن. ع. ح. ذ) کسی معاملے میں کسی کی طرف سے پیروی کرنے والا

دلیل - جمع: پیرا و کاراں۔

پیرا و کار سرکاری - (۱) - (۲) آگ - (۱) - (۲) آگ - (۱) - (۲) آگ

سرکاری طرف سے مقدمات کی پیروی اور کارروائی کی نگرانی کرے۔

پیرا و - (Peru) (پے - رگ - وا) - (۱) - (۲) آگ - (۱) - (۲) آگ - (۱) - (۲) آگ

پیرا و - (۱) - (۲) آگ - (۱) - (۲) آگ - (۱) - (۲) آگ

پیرا و - (Parody) (پے - رگ - وا) - (۱) - (۲) آگ - (۱) - (۲) آگ - (۱) - (۲) آگ

معنی خیر نقل - بھونڈی نقل - کسی مصنف کی عبارت - نظم یا اسلوب

بیان وغیرہ کی مصحف نقل۔

پیرا و - (پے - رگ - وا) - (۱) - (۲) آگ - (۱) - (۲) آگ - (۱) - (۲) آگ

پیرا و - (پے - رگ - وا) - (۱) - (۲) آگ - (۱) - (۲) آگ - (۱) - (۲) آگ

پیرا و - (پے - رگ - وا) - (۱) - (۲) آگ - (۱) - (۲) آگ - (۱) - (۲) آگ

پیرا و - (پے - رگ - وا) - (۱) - (۲) آگ - (۱) - (۲) آگ - (۱) - (۲) آگ

پیرا و - (پے - رگ - وا) - (۱) - (۲) آگ - (۱) - (۲) آگ - (۱) - (۲) آگ

پیری - (پے۔ ری) (ہ۔ ا۔ مٹ) (۱) غلہ جو صاف کرتے وقت باقی رہے۔
 اناج کا بھوسہ بلا ہوا ڈھیر (۲) یا زریب۔
 پیسری - (پی۔ ری) (ف۔ ا۔ مٹ) (۱) بڑھاپا (۲) مرید بنانے کا پیشہ (۳) چالاک
 اُستادی (۴) حکومت۔ دعویٰ (۵) کرامت۔
 پیسری و صد عینت نہیں گفتہ اند۔ (ف۔ ن) بڑھاپا سو عیسوں کے برابر ہے
 پیسے کہ دم زلفش ز ندلس عینت است۔ (ف۔ مقلو) اس
 بڑھے کی نسبت کہتے ہیں جو بڑھاپے میں جوانی کا دم بھرے۔
 پیسریڈ - (Period) ریپر۔ ریڈ (انگ۔ ا۔ مذ) (۱) مدت۔ دور۔ زمانہ
 وقت (۲) زمانہ کا کوئی حصہ (صدی۔ سنہ۔ سال)۔
 پیسڑ - (ہ۔ ا۔ مٹ) (۱) قدم کا نشان۔ چوری کا کھوج (۲) پاڑ۔ معاموں کی اوچی
 نشست جو کلائی تختہ کا ڈر بناتے ہیں۔ گو۔
 پیسڑ - (ہ۔ ا۔ مذ) (۱) درخت۔ شجر (۲) بودا۔ بونٹا۔
 پیسڑ بونٹے بول کے تو آم کہاں سے ہوں۔ (۱) مثل، بڑے کا بول
 کا نتیجہ کبھی اچھا نہیں ہوتا۔
 پیسڑ پھیل ہی سے پھیانا جاتا ہے۔ (۱) مقلو، انسان کی گفتگو سے پتہ
 چل جاتا ہے کہ وہ اچھا ہے یا بُرا۔
 پیسڑ گننا یا آم کھانا۔ (۱) محاورہ) اپنی غرض سے مطلب رکھنا چاہئے۔
 کہیں سے ہو اور کسی طرح ہو۔
 پیسڑ - (ہ۔ ا۔ مٹ) (۱) درد۔ تکلیف (۲) دروزہ۔ بچہ پیدا ہونے کا درد۔
 پیسڑ میں لگنا۔ (۱) محاورہ) (۲) درد ہونا (۳) دروزہ ہونا۔
 پیسڑا - (پے۔ ڈا) (۱) وقت۔ صفت (تکلیف پہنچانے والا۔
 پیسڑا - (پے۔ ڈا) (۱) (ہ۔ مذ) (۱) گڈھے ہوئے آنے کا ایک روٹی کے برابر
 گولا (۲) ایک قسم کی مٹھائی (۳) گول۔ خستہ۔ گول مول۔
 پیسڑا - (پی۔ ڈا) (۱) (ہ۔ مذ) (۱) دکھ۔ درد۔ تکلیف۔ دروزہ۔
 پیسڑ کا کالا۔ (پیسڑ۔ کالا۔) (۱) (ہ۔ مذ) زینہ۔
 پیسڑ ٹانا۔ (ہ۔ مٹ) (۱) دبانا (۲) پھینکانا (۳) پھوڑنا (۴) پیلنا - عرق نکالنا (۵)
 اذیت دینا (۶) پرانے زمانے کی سزا۔
 پیسڑو - (پے۔ ڈو) (۱) (ہ۔ مذ) (۱) ناف سے نیچے کا حصہ۔
 پیسڑولی آج - عورت کی خواہش نفسانی کی محبت (مرد کے ساتھ)۔
 پیسڑھا - (پی۔ ڈھا) (۱) (ہ۔ مذ) گڑھی ناکھٹولا۔
 پیسڑھی - (پی۔ ڈھی) (۱) (ہ۔ مٹ) (۱) کھٹولی (۲) خاندان کا سلسلہ نسل۔
 پشت (۳) قدامت (۴) بہت مدت کی جگہ۔
 پیسڑھی در پیسڑھی - (۱) سلسلہ بدلنا۔ باپ دادا سے (۲) موروثی۔ روایتی۔
 پیسڑی - (پی۔ ڈی) (۱) (ہ۔ مٹ) (۱) چڑھنے کی جگہ۔ کوٹھے پر چڑھنے کی
 جگہ (۲) زینہ۔
 پیسڑی - (پی۔ ڈی) (۱) (ہ۔ مٹ) (۱) ایک قسم کا پان۔ درخت کا تنہا (۳)
 نیل کا درخت جب قوم جو چکے اور صرف تنہا رہ جائے۔
 پیسڑ - (ہ۔ ا۔ مٹ) [پسڑا کا مختلف۔ مند۔ دشمن۔
 پیسڑ بڑھانا - (۱) محاورہ) ہند ہو جانا۔ دشمن ہو جانا۔
 پیسڑا - (پے۔ ڈا) (۱) (ہ۔ مٹ) (۱) جونی بگشت۔ پاپوش۔ نعلین۔

پسڑا پر مارنا۔ (۱) محاورہ) حقیر بنانا۔ بے حقیقت سمجھنا۔ پروانہ کرنا۔
 پسڑا دکھانا۔ (۱) محاورہ) (۲) جوتا دکھانا (۳) خاطر میں نہ لانا۔ پے پروائی جتانہ۔
 پسڑا سے۔ (۱) مقلو) جوتی سے۔ بلا سے۔ کیا پرواہ ہے۔
 پسڑا کی نوک پر۔ پسڑا کی نوک سے۔ (۱) محاورہ) پاپوش سے۔
 جوتی سے۔ کیا پرواہ ہے۔
 پیسا - (پے۔ سا) (ہ۔ ا۔ مذ) (۱) روپے کا سواں حصہ۔ مال و زر۔ دولت۔
 پیسا اڑانا۔ (۱) محاورہ) روپیہ برباد کرنا۔ فضول خرچی کرنا۔
 پیسا پیسا کیا یا چینی بھرا کھایا۔ (۱) مثل) محنت کر کے تھوڑا تھوڑا جمع کیا۔
 تھوڑے وقت میں گنا دیا۔
 پیسا ٹھیکری کر دینا۔ (۱) محاورہ) بیدار روپیہ صرف کر دینا۔
 پیسا جوڑنا۔ (۱) محاورہ) روپیہ پیسے جمع کرنا۔ بچل کرنا۔
 پیسا ڈبونا۔ (۱) محاورہ) روپیہ کھونا۔ دولت برباد کرنا۔
 پیسا کھوٹا ہو جانا۔ (۱) محاورہ) اولاد کا بد چلن اور آوارہ ہو جانا۔
 پیسا ڈوبنا۔ (۱) محاورہ) نقصان ہونا۔ دولت کا برباد ہو جانا۔ قرض
 وصول نہ ہونا۔
 پیسا گانٹھ کا بیٹا پیٹ کا۔ (۱) مثل) سگا بیٹا اور اپنی جیب کا پیسا ہی
 کام آتا ہے۔
 پیسا گانٹھ کا اور جو رسا گتھ کی۔ (۱) مثل) روپیہ اور بیوی اس کی ہے
 جس کے پاس ہو۔
 پیسا لاکھ کی میل ہے۔ (مثل) دولت بے حقیقت چیز ہے۔
 پیسے دھڑی۔ (۱) مٹ) ایک پیسے کی دھڑی بھر۔ پیسے کی پانچ سیر
 بہت سستی۔
 پیسے کا پوت (میت)۔ (۱) مصنف) حریص۔ لالچی۔ زریہ رست۔
 پیسے کے کام کا نہ ہونا۔ (۱) محاورہ) نکتا ہونا۔ بے حقیقت ہونا۔
 پیسے والا۔ (۱) مصنف) دولت مند۔ مال دار۔ امیر۔
 پیس۔ (ہ۔ ا) (۱) تاش کیلئے والوں کی اصطلاح میں پتے تقسیم کرنا (۲) محنت بشت
 (۳) پینا کا آمر۔
 پیس پاس کے۔ میس کر۔
 پیس پاس مہناج مرے۔ کرامت محمد جھنڈے کو۔ (مثل) محنت
 کوئی کرے اور اس کا صلہ کوئی پائے۔
 پیس ڈالنا۔ (۱) محاورہ) (۲) چور کر دینا (۳) تباہ کر دینا۔ خاک کر دینا۔
 پیس لوں تو پیسوں۔ (مثل) روزی کی نگر مرڈے کے ماتم سے مقدم ہے۔
 پیس موٹی، پکا موٹی، آٹے کوٹھے کھاگئے۔ (مثل) ہم محنت کرتے
 کرتے خاک گئے اور نادمہ کسی اور نے اٹھایا۔
 پیسٹری - (Pastry) (پیسٹ۔ ری) (انگ۔ ا۔ مٹ) (۱) ایک انگریزی مٹھائی
 پیسنا - (پیس۔ نا) (ہ۔ مٹ) (۱) ریزہ ریزہ کرنا۔ سفوت کرنا (۲) رگڑنا جگسنا۔
 (۳) برباد کرنا۔ تباہ کرنا (۴) سخت کام کرنا۔
 پیسینجر - (Passenger) (پے۔ سن۔ جر) (انگ۔ ا۔ مذ) مسافر۔
 پیسینجر ٹرین - (Passenger Train) (انگ۔ مٹ) مسافر گاڑی۔
 پیسندار۔ (پے۔ سن۔ دار) (ق) دولت مند۔

پیشی - رپیس - نی (ہ۔ ا۔ مٹ) سخت محنت - مصیبت -
 پیش - (ف - صفت) (۱) آگے - سامنے (۲) پہلے - قبل - آئندہ (۳) (۱) - مذ
 جنم - وہ علامت جو کسی حرف کے اوپر لکھنے والی آواز کے لیے لکھتے
 ہیں (۴) انگریزوں کی گاڑی (۵) تیس گادہ دانہ جو سب دانوں کے
 اوپر ہوتا ہے -
 پیش آنا - (۱) محاورہ (۲) آگے آنا - ظہور میں آنا (۳) برتاؤ کرنا -
 پیش از مرگ و اولاد - (مثلاً) تکلیف سے پہلے ہی شور مچا دینا - کسی امر کے
 پیش آنے سے پہلے ہی پریشان ہونے لگنا -
 پیش از میں - (ف) اس سے پہلے - اس سے آگے -
 پیش امام - (ف) - مذ - پیش نماز - امام - نماز پڑھانے والا -
 پیش بند - (ف) - مذ - زیر بند - وہ چھڑیا فوڑ جو گھوڑے کی پروزی اور
 تنگ کے بیچ میں گردن بھگی رہنے کی غرض سے باندھتے ہیں -
 پیش بندی - (ف) - (۱) مٹ) دُور اندیشی - پہلے سے کسی بات کی تدبیر کرنا -
 پیش ہیں - (ف) - مذ) دُور اندیش - عاقبت اندیش - کسی معاملے کو
 پہلے سے سوچ لینے والا -
 پیش بینی - (ف - مٹ) مآل اندیشی - دُور اندیشی -
 پیش یا آفتادہ - (ف - صفت) نہایت معمولی - سامنے کی بات - فرسودہ -
 پیش پیش - (ف) آگے آگے -
 پیشتر - (ف - صفت) پہلے - بہت پہلے -
 پیش (جانا) چلنا - (۱) محاورہ (۲) قابو لینا - کارگر ہونا -
 پیش خدمت - (ف - ۱) مٹ) (۱) خدمت گزار (۲) بیگمات کی خدمت
 کرنے والی - خادمہ -
 پیش خیمہ - (ف) - مذ) (۱) امیر کا خیمہ وہ سامان جو فوج کی روانگی سے پہلے
 اٹلی منزل کو بھیجا جاتا ہے (۲) کسی واقعہ کی تہید (۳) ہر کارہ - پیادہ - لازم
 (۴) مُتقدّم العیش - ہر اول -
 پیش دست - (ف - صفت) (۱) آگے کام آنے والا - اسسٹنٹ - نائب
 (۲) سبقت کرنے والا -
 پیش دستی کرنا - (۱) محاورہ) پہل کرنا - سبقت کرنا (۲) حملہ کرنا -
 پیش رفت - (ف - صفت) (۱) قابو - پس (۲) موثر - کارگر -
 پیش رو - (ف - صفت) آگے آگے چلنے والا - آگے گزرنے والا -
 پیش قبض - (ف) - مذ) (۱) خیر - چھڑا - گتار (۲) گتشی کے ایک بیج کا نام -
 پیش قدمی - (ف) - مٹ) (۱) بڑھکے کام کرنا - پہل (۲) حملہ - چڑھائی (۳)
 دلیری - جرات -
 پیش کار - (ف) - مذ) (۱) مینجر - مددگار - نائب (۲) نائب سررشتہ دار -
 مسل خواں -
 پیش کرنا - (۱) مٹ) سامنے کرنا - حاضر کرنا - آگے رکھنا -
 پیش کش - (ف - صفت) (۱) بھینٹ - نذر (۲) ہدیہ - تحفہ (۳) محصول - خراج
 پیش گاہ - (ف) - مٹ) (۱) سامنے - رُوبرو - حضور (۲) دربار - صدر - اجلاس -
 پیش گوئی پیشین گوئی - (ف) - مٹ) کسی بات کی پہلے سے خبر دینا -
 پیشگی - (ف) - (۱) مٹ) دو اجرت جو کام سے پہلے دی جائے - چیز خریدنے

سے پہلے اس کی قیمت کا کچھ ادا کرنا -
 پیش لفظ - (ف) - مذ) آغاز کلام - کتاب کا دریاچہ (انگ) (Forward)
 پیش نظر - پیش نگاہ - نگاہ کے سامنے -
 پیش نماز - (ف) - مذ) امام - نماز پڑھانے والا -
 پیش نہاد - (ف) - مذ) (۱) بقا نظر - (۲) ارادہ (۳) نونہ - شمال (۴) رسم - رواج -
 پیش و پس - (ف) - مٹ) آگے پیچھے -
 پیشاب - (پے - شاب) (ف) - مذ) بول - مُوت - تارورہ -
 پیشاب بند ہونا - (۱) مُوت بند ہونا (۲) کسی شخص سے ڈرنا -
 پیشاب بھی نہ کرنا - (۱) محاورہ) بہت حیرت کھینا -
 پیشاب خطا ہونا - (۱) محاورہ) کسی شخص کا ڈر سے مُوت نکل جانا - بہت
 خوف کھانا -
 پیشاب سے چراغ جلتا ہے - (۱) (مثلاً) دھاک بیٹھی ہے - رُعب جما
 ہوا ہے -
 پیشاب کرنا - (۱) محاورہ) (۲) مُوتنا (۳) از حد حقیر کھینا - بالکل خاطر میں نہ لانا -
 پیشاب کی دھار پر مارنا - (۱) محاورہ) بہت حقیر کھینا -
 پیشاب کی راہ بہانا - (۱) محاورہ) (۲) نغول خرچہ کرنا (۳) بد چلنی
 میں صرف کرنا -
 پیشاب میں چراغ جلتا - (۱) محاورہ) رُعب ہونا - دھاک بیٹھنا -
 پیشاب (نکلنا) نکل جانا - (۱) محاورہ) (۲) مُوت دینا (۳) ڈرنا - خوف سے کانپنا
 پیشانی - (پے - شا - نی) (ف) - مٹ) (۱) ماتھا جہیں (۲) قسمت - نصیب -
 (۳) سرنامہ - القاب (۴) کاغذ کا بالائی حصہ جو عبارت سے اوپر خالی
 چھوڑ دیا جائے -
 پیشانی پر شکن (پل) پڑنا - (۱) محاورہ) چہرے سے رنج ظاہر ہونا -
 طال ہونا - غصہ آنا -
 پیشانی پر لکھا ہونا - (۱) محاورہ) نوشتہ تقدیر ہونا - چہرے سے عیاں ہونا -
 پیشانی رگڑنا - (۱) محاورہ) بہت خوش دگ کرنا - فرماں برداری کرنا -
 پیشانی کا خط - پیشانی کی تحریر - تقدیر کا لکھا ہوا - نوشتہ قسمت -
 پیشانی کا لکھا - (۱) مٹ) قسمت کی بات - نوشتہ تقدیر -
 پیشوا - (پیش - وا) (ف) - مذ) (۱) رہبر - رہنما - امام (۲) مرہٹوں کے سردار
 کانتھ - جمع - پیشوایان -
 پیشوا - (پیش - واز) (ف) - مٹ) عورتوں کا ایک گھیر دار لباس (۲) ہنک
 (۳) سردار - (ف) دیکھنے پشوار -
 پیشوائی - (پیش - وا - ی) (ف) - مٹ) (۱) رہبری - رہنمائی (۲) استقبال -
 پیشہ - (پے - شہ) (ف) - مذ) ہنر - فن - کام - دھندا - روزگار -
 پیشہ ور - (ف) - مذ) (۱) کسی قسم کا کام کرنے والا (۲) تاجر - دکاندار (۳)
 اہل حرفہ - ہنرور -
 پیشی - (پے بی) (ف) - مٹ) (۱) حضور (۲) زیر تجویز مقدمے کی سماعت
 کی تاریخ -
 پیشی کا (محرر یا) منشی - وہ شخص جو حاکم کے سامنے کاغذات پیش کرے
 مسل خواں - پیش کار -

پیشین۔ (پے۔ پیشین) (ن۔ ۱۔ مذ) پہلا۔ قدیم زمانے کا۔ اگلا۔

پیشین گوئی۔ کسی واقعہ کی قبل از وقت اطلاع۔

پینچارہ۔ (پے۔ غا۔ ۱۔ مذ) طعن۔ سرزنش۔

پیغام۔ (پے۔ غام) (ن۔ ۱۔ مذ) (۱) نسیا۔ زبانی بات۔ پیغام (۲) شادی۔

یانسبت کی درخواست۔ جمع: پیغامات۔

پیغام دینا۔ (۱) محاورہ (کسی سے کوئی بات کہنا) بیجا شادی کی درخواست کرنا۔

پیغام ڈالنا۔ (۱) محاورہ شادی یا نسبت کی درخواست کرنا۔

پیغام سلام۔ سوال و جواب۔ بات چیت۔

پہینا مای پیغامی۔ (پے۔ غا۔ ما۔ پے۔ غامی) (۱) ڈار۔ (۱) مٹا۔ (۱) دھر سے اُدھر۔

اور ادھر سے ادھر پیغام آنا جانا۔ پیغام سلام۔

پہنچمبر۔ (پے۔ غم۔ بَر۔) (ن۔ ۱۔ مذ) خدا کا حکم لانے والا۔ پیشوائے دین۔ قاعدہ

انچی۔ سفیر۔ پیامبر۔ نبی۔ رسول۔ جمع: پیغمبران۔

پیغمبری۔ (پے۔ غم۔ بَر۔) (ن۔ ۱۔ مذ) نبوت۔ رسالت۔ خدائی پیغام

بندوں تک پہنچانے کی خدمت۔

پیغمبری وقت پڑنا۔ (۱) محاورہ سخت مصیبت پڑنا۔

پیک۔ (ن۔ ۱۔ مذ) (۱) قاعدہ۔ ہرکارہ۔ نامہ بر۔ چھٹی رسال۔

پیک۔ (Pack) (انگ۔ ۱۔ مذ) مال و اسباب کو بانڈھنا۔

پیک۔ (۱۔ ۱۔ مذ) (۱) پان کا رنگین ٹھوک (۲) کھیت کی تیار فصل (۳) رگوں میں رقیق شے بھرنے کا آلہ۔

پیکدکان۔ (ن۔ ۱۔ مذ) آگال دان۔ وہ برتن جس میں پان کا آگال ڈال دیتے ہیں۔

پیککا۔ (پے۔ گا) (ن۔ ۱۔ مذ) پیر۔

پیکار۔ (پے۔ کار) (ن۔ ۱۔ مذ) (۱) جنگ۔ (۲) لڑائی (۳) حاصل کرنے والا۔

(۳) چھیری والا۔

پیکال۔ (پے۔ کال) (ن۔ ۱۔ مذ) برہمی یا بھالے وغیرہ کی انی۔ نیزے کی نوک

پیکٹ۔ (Pack) (انگ۔ ۱۔ مذ) مٹا ہوا۔ عہد نامہ۔

پیکٹ۔ (Packet) (انگ۔ ۱۔ مذ) (۱) چھوٹا بندل۔

پیکر۔ (پے۔ کر) (ن۔ ۱۔ مذ) (۱) پہرہ۔ شکل۔ صورت۔ جمع: پیکراں۔

پیکر۔ (Packer) (پے۔ کر) (انگ۔ ۱۔ مذ) اسباب بند کرنے والا۔

سامان پیک کرنے والا۔

پیکڑا۔ پیکڑی۔ (پیک۔ ٹی) (۱) پلا۔ مذ۔ دوسرا مٹا

(۱) قیدلوں کے پاؤں کی بیڑی (۲) عورتوں کے پاؤں کا ایک زیور۔

پیکشی۔ (پے۔ کش۔ ٹی) (ن۔ ۱۔ مذ) رات کو پھر دینے والا۔

پیل۔ (۱۔ ۱۔ مذ) (۱) دھکا۔ ریل۔ جیسے دھکا ہیل (۲) پیلینا کا آثر۔

پیل۔ (ن۔ ۱۔ مذ) (۱) لٹھی۔ (۲) شطرنج کا وہ بہرہ جو آڑا چلتا ہے اور

آڑا مارتا ہے۔ جمع: پیلاں۔

پیلیان۔ (ن۔ ۱۔ مذ) نیل بان۔ مہادت۔ لٹھی چلانے والا۔ جمع: پیلیانیاں

پیل بانی۔ (ن۔ ۱۔ مذ) مہادت کا پیشہ۔

پیلیا۔ پاؤں بچوں کو نہایت موٹے ہو جانے کی بیماری۔ نیل پا۔

پیلیا۔ کھم۔ تھم۔ سٹون۔

پیل پیکر۔ (ن۔ ۱۔ صغ) قوی ایسی بڑے جُتے کا (۲) رستم کا لقب۔

پیل ڈالنا۔ (۱) محاورہ کو مرنکال دینا۔ بہت ظلم و ستم کرنا۔

پیللا۔ (پی۔ لا۔ ۱۔ ۱۔ مذ) (۱) کیسری۔ نرد۔ (۲) زعفرانی (۳) شطرنج کا

بہرہ۔ پیل۔

پیللا۔ پیللا۔ پیللا۔ پیللا۔ (پیل۔ نا۔ ریل۔ ٹا) (پے۔ لٹھ) (۱) مذ۔ (۲) مذ۔

تھی۔ خایہ۔

پیلنا۔ (پیل۔ نا) (۱) مص۔ (۱) دیکھنا۔ آگے یا دھجے ہشانا (۲) کوٹھوں میں پینا۔

تیل نکلنا (۳) گھسیٹنا۔ داخل کرنا (۴) ڈنٹر پیلنا۔

پیلو۔ (پی۔ ٹو) (۱۔ ۱۔ مذ) (۱) ایک درخت جس کی بڑا درشاخوں کی مسواک

بناتے ہیں (۲) ایک رنگی (۳) نیل مرنا۔

پیلو۔ (پے۔ لو) (ن۔ ۱۔ مذ) برے۔ آئندہ۔ اُدھر۔

پیلہ۔ (پی۔ لہ) (ن۔ ۱۔ مذ) (۱) ریشم کا ٹکڑا (۲) کوئی ابریشم (۳) شطرنج

کا بہرہ۔

پیلی۔ (پی۔ لی) (۱۔ ۱۔ مذ) (۱) نرد (۲) اشرفی۔

پیچم۔ (۱۔ ۱۔ مذ) پریم۔ محبت۔ یادگار۔ ہریت۔

پیچا۔ (ن۔ لاصغر) مصدقہ نمودن کا صیغہ امر جو اسم کے بعد اگر اسم غافل

ترکیبی بنا دیتا ہے اور ناپنے والے کے معنی دیتا ہے جیسے حرارت پیا

بارش پیا۔

پیچان۔ (پے۔ مان) (ن۔ ۱۔ مذ) عہد۔ قسم۔ شرط۔ وعدہ۔ اقرار۔

پیچان شکن۔ (ن۔ صغ) عہد توڑنے والا۔ عہد پر قائم نہ رہنے والا۔

پیچانہ۔ (پے۔ مانہ) (ن۔ ۱۔ مذ) گلاس (۲) ناپنے کا آلہ۔ پلا۔ ترازو۔

پیچانہ بھر جانا۔ (۱) محاورہ موت آجانا۔

پیچانہ بھڑھانا۔ (۱) محاورہ شراب پینا۔

پیچانہ چھلکانا۔ (۱) محاورہ کسی سیال چیز کا لہریز ہو کر گنا (۲) کم ظرفی ظاہر

ہونا۔ آنسوؤں کا تار بندھنا۔

پیچانہ کش (گسار)۔ (ن۔ صغ) شراب خورد۔

پیچانہ لہریز ہونا۔ (۱) محاورہ (۱) پیار بھر جانا (۲) زندگی ختم ہونا۔

پیچانش۔ (پے۔ مان) (ن۔ ۱۔ مذ) (۱) تاپ۔ خصوصاً زمین کا تاپ۔

پیچمبر۔ (پے۔ پیم۔ بَر) (ن۔ ۱۔ مذ) پیچمبر۔ بنی۔

پیچمک۔ (پے۔ مک) (۱۔ ۱۔ مذ) (۱) سنہرا گونا جو کلابتوں سے بنا یا اور دکھوں

اور ٹوبیوں وغیرہ پر لگایا جاتا ہے۔

پیں۔ (۱۔ ۱۔ مذ) (۱) مٹا یا باریک آواز۔ باجے یا فیزی کی آواز۔

پیں بولنا۔ (۱) محاورہ عاجز ہونا۔ تنگ آجانا۔

پینا۔ (پے۔ نا) (۱۔ ۱۔ صغ) (۱) تیز ترش۔ (۲) نوکدار (۳) (۱۔ ۱۔ مذ) آنکھ۔

پینا۔ (پی۔ نا) (۱) مص۔ (۱) نوش کرنا کسی رقیق چیز کا حلق کے نیچے اتارنا۔

(۲) شراب نوشی کرنا (۳) مٹے کا دم لگانا (۴) چوسنا (۵) پھیلنا۔

پینتالیس۔ (پیں۔ تالیس) (۱۔ ۱۔ صغ) پانچ اوپر چالیس۔ ۴۵۔

پینتیس۔ (پیں۔ تیس) (۱۔ ۱۔ صغ) پانچ اوپر تیس۔ ۳۵۔

پینٹ۔ (Paint) (انگ۔ ۱۔ مذ) رنگ۔ روغن۔

پینٹر۔ (Painter) (پین۔ ٹر) (انگ۔ ۱۔ مذ) (۱) مصور۔ نقاش

(۲) رنگ ساز۔

پیننی - (Penny) (پے۔ نی) (انگ۔ ۱۔ منٹ) برطانیہ کا سب سے چھوٹا تانبے کا سکہ۔ شنگ کا بارھواں حصہ۔

پیو - (ق) (پی۔ پیارا۔ محبوب خاندان۔

پیوٹری - (پے۔ یو۔ ٹری) (۱۔ منٹ) ایک قسم کی زرد مٹی۔

پیوست - (پے۔ وسٹ) (ف۔ صف) (۱) ملا ہوا۔ جڑا ہوا۔ جوڑ۔ ملاپ۔

پیوست کرنا - (۱۔ محاورہ) (۱) ملا کرنا۔ چپا کرنا۔ چھوٹا کرنا (۲) منبوط کرنا (۳) جذب کر دینا۔

پیوستگان - (پے۔ وس۔ ت۔ گان) (ف۔ ۱۔ منٹ) اقربا۔ عزیز واقارب۔

پیوستہ - (پے۔ وس۔ تہ) (ف۔ صف) (۱) ملا ہوا۔ ملحق (۲) ایک جان (۳) ہمیشہ۔ مدام (۴) گذشتہ۔ گزرا ہوا۔

پیوسی - (پے۔ یوسی) (۱۔ منٹ) گائے کے سینس کا گاڑھا دودھ جو پتہ بھنے کے تین دن بعد تک رہتا ہے۔ برولی۔

پیون - (پی۔ ان) (انگ۔ ۱۔ منٹ) چڑاسی۔ ہرکارہ۔ ڈاکیا جھمی رساں پیوند۔ (پے۔ ونڈ) (ف۔ ۱۔ منٹ) (۱) بندش۔ بسگی (۲) چھپی۔ جوڑ۔ مناسبت۔

میل (۳) عن برادر اقربا۔ شوہر۔ جوڑو (۴) ایک ہم جنس درخت کی شاخ کا دوسرے ہم جنس درخت سے جوڑ۔

پیوند دار - (۱۔ منٹ) جس چیز میں پیوند لگا یا گیا ہو۔ پیوند لگا ہوا۔

پیوند زمین - (ف۔ صف) مرکز زمین میں دفن۔

پیوند لگانا - (۱۔ محاورہ) (۱) جوڑ لگانا۔ گانٹھنا (۲) ایک درخت کی شاخ کا اسی قسم کے دوسرے درخت کی شاخ میں قلم لگانا (۳) میل سے میل ملانا۔

پیوند گانٹھنا - (۱۔ محاورہ) کپڑے میں جوڑ لگانا۔ ایک درخت سے دوسرے درخت کی شاخ میں قلم لگانا۔

پیوند میں پیوند مل جانا - (۱۔ محاورہ) نسل میں نسل مل جانا۔

پیوندی - (پے۔ ونڈی) (ف۔ ۱۔ منٹ) (۱) پیوند لگایا ہوا۔ وہ درخت جس میں پیوند لگا یا گیا ہو (۲) پیوند والے درخت کا پھل (۳) دوغلا۔ دورنگا۔

پیوندی موچیں - (۱۔ منٹ) وہ حلقہ نما موچیں جنہیں بانکے آدمی اکثر گالوں سے چپکا لیتے ہیں۔

پیوٹیلین - (Pavilion) (پے۔ وی۔ لی۔ ان) (انگ۔ ۱۔ منٹ) (۱) شرفش عمارت کا آگے کو نکلا ہوا حصہ جو عموماً نقش و نگار سے آراستہ ہوتا ہے (۲) خوش نما بنگلا خصوصاً وہ جو کرکٹ کے میدان کے پاس کھلاڑیوں اور تماشائیوں کے لیے بنایا جاتا ہے (۳) بڑا چوٹی دار خیمہ۔

پیمہ - (ف۔ ۱۔ منٹ) چربی۔

پیہر - (پی۔ ہر) (۱۔ منٹ) میکا۔ ان باپ کا گھر۔

پیہم - (پے۔ ہم) (ف۔ تابع نفل) لگانا تار متواتر۔ پے در پے۔

پیہو - (پی۔ ہو) (۱۔ منٹ) پیہمے کی آواز۔

پیلٹی - (پے۔ ای) (۱۔ منٹ) چھوٹا صندوق یا پیارا۔

پیلٹی - (پے۔ ای) (۱۔ منٹ) یاد کا مخفف۔ مرکبات میں مستعمل ہے۔ جیسے ادھر پیٹی۔

پیسے دودھ اور کھائے مال۔ (ش) اس شخص کی نسبت کہتے ہیں۔ جو عیش و عشرت میں زندگی بسر کرتا ہو۔

پیسے ہونا - (۱۔ محاورہ) شراب کے نشے میں مدہوش ہونا۔

پینٹری - (Pantry) (پینٹ۔ ری) (انگ۔ ۱۔ منٹ) وہ کونٹری جس میں کھانے پینے کی چیزیں اور برتن رکھے جاتے ہیں۔

پینٹنگ - (Painting) (انگ۔ ۱۔ منٹ) (۱) مصوری۔ نقاشی۔ (۲) رنگ سازی۔

پینٹھ - (۱۔ منٹ) آٹھویں روز کا بازار۔ روز بازار۔ ہاٹ۔

پینٹھا بھی لگی نہیں گھڑے آموچہ ہوئے۔ (۱۔ منٹ) معاملہ بھی طے نہیں ہوا۔ خود مرض لوگ پہلے ہی آگئے (۲) کام بھی ہوا نہیں اور مانگنے والے آگئے۔

پینچن - (پین۔ جن) (۱۔ منٹ) پاؤں کا ایک زبور۔

پینچنی - (پین۔ نی) (۱۔ منٹ) (۱) کبوتروں کے پاؤں میں ڈالنے کا ایک جوت دار بھتا ہوا چھلا۔ بھانجر (۲) گاڑی کی وہ خوشحال کڑی جو پیٹے کی روک ہوتی ہے۔ جس سے وہ دھڑے سے باہر نہیں نکلنے پاتا۔

پینچنا - (۱۔ منٹ) روٹی کو بٹولوں سے الگ کر کے دھلکانا۔

پینڈا - (پین۔ ۱۔ منٹ) (۱) تلا۔ برتن کا پھلا حصہ۔ کسی چیز کے نیچے کا حصہ۔

پینڈے کا ہلکا - (۱۔ محاورہ) بات کا کچا۔ غیر مستقل مزاج۔ کبھی ادھر کبھی اُدھر ہونے والا۔

پینڈے کے بل بیٹھنا - (۱۔ محاورہ) (۱) چوڑوں کے بل بیٹھنا (۲) ڈوبنا۔ سزق ہونا (۳) تھک جانا۔ دیوانگنا (۴) گھبر جانا۔ بدعاس ہو جانا۔

پینڈی - (پین۔ دی) (۱۔ منٹ) (۱) توپ یا بندوق کی کوئی (۲) گامبر یا مولی کی جڑ (۳) کسی چیز کا پھلا حصہ۔

پینڈر - (ق) (۱) پکا (۲) وہ رقم جو شادی کے موقع پر چیز کی جگہ دی جائے۔

پینڈا - (پین۔ ڈا) (۱۔ منٹ) راستہ۔ گڈ گڈی۔ قدم۔ فاصلہ۔

پینڈلم - (Pendulum) (پین۔ ڈم۔ لم) (انگ۔ ۱۔ منٹ) گھڑی یا گھنٹے کا لنگن یا لنگر۔

پینڈی - (پین۔ ڈی) (۱۔ منٹ) لڈو جو میوے گھی اور کھانڈ سے بنائے جاتے ہیں۔

پیننس - (پی۔ نس) (۱۔ منٹ) (۱) پاکی۔ ایک قسم کا ڈولا۔ فینس (۲) ناک کی ایک بیماری۔

پینٹھ - (پین۔ ٹھ) (۱۔ منٹ) (۱) پانچ اُدیر ساٹھ۔ ۶۵۔

پینک - (پی۔ نک) (۱۔ منٹ) اینون یا پوست کی ادھک۔

پینک میں آنا - (۱۔ محاورہ) نشہ میں اونگھنا۔ اینون کا نشہ چڑھنا۔

پینک میں ہونا - (۱۔ محاورہ) بے خبر ہونا (۲) اینون یا پوست کے نشے میں ہونا

پینک لٹا - (۱۔ منٹ) (۱) جھولے کا لبا جھونک (۲) جھولے کی رستی (۳) ایک قسم کی بڑ۔

پینک بڑھانا - (۱۔ محاورہ) (۱) جھولے کا لبا جھونک لینا (۲) میل جول بڑھانا۔ بے تعلق بڑھانا۔

پینک دینا - (۱۔ محاورہ) جھولے میں جھونکا دینا۔

پینگوئن - (Penguin) (پینگ۔ ون) (انگ۔ ۱۔ منٹ) ایک بھری پرندہ۔

ت

(تے) (ع۔ مٹ) اُردو فارسی حروف تہجی کا چوتھا عربی کا تیسرا اور ہندی کا سوھواں حرف۔ حساب ابجد میں اس کے چار تئو عدد مقرر ہیں۔

ت۔ ا

تا۔ (ف) (ا) تہ۔ بل۔ پیچ (۲) تک۔ جس وقت تک جب تک۔ جب تک۔ تاکہ اس لئے کہ۔ اگر (۳) بچوں کا ایک کلمہ (۴) مانند۔ تا امکان۔ مقدور بھر۔ جہاں تک طاقت ہے۔ تا آں کہ۔ (ف) وہاں تک کہ۔ تا اینکہ۔ (ف) یہاں تک کہ۔ تا بہ اوج فلک۔ (ف) ع۔ (۱) آسمان کی بلندی تک (۲) بہت اوجیا۔ تا بہ حیات) زیست۔ (ع۔ ف) جیسے ہی۔ جنم بھر۔ زندگی بھر۔ عمر بھر۔ جب تک زندگی ہے۔ تا بہ دامن۔ (ف) دامن تک۔ تا بہ کجا۔ تا کجا۔ (ف) تا بہ کے تاکہ کے کب تک۔ کہاں تک۔ تا بچے۔ (ف) کب تک۔ تا بہ مقدور۔ تا مقدور۔ (ف) جہاں تک ممکن ہو۔ حتی الامکان۔ تا تریاق از عرق آورده شود، مارگزیدہ مرده شود (ف) جب تک۔ عرق سے تریاق آئے۔ سانپ کا مار جائے گا۔ شدید انتظار کا کلمہ۔ تا تو بس میری من بجدامی رسم افیش، جب تک تو میرے پاس پہنچے میں غدا کے پاس پہنچ رہوں گا یعنی مر بادوں گا۔ شدت انتظار کا اظہار۔ تا چند۔ (ف) کب تک۔ تا حال۔ (ف) ع۔ اس وقت تک۔ اب تک۔ تا صین حیات۔ (ف) ع۔ زندگی بھر جب تک زندہ ہے۔ تا دم زیست۔ (ف) ع۔ تا زندگی۔ تا زیست۔ عمر بھر۔ زندگی تک۔ تاکہ۔ (ع۔ ف) علت، کیونکہ۔ اس لئے کہ۔ اس واسطے کہ۔ تا مرد سخن نگفتہ باشد عیب و ہنر ش ہفتہ باشد (ف) (ش) جب تک آدمی بات نہ کرے اسکے عیب و ہنر چھپے رہتے ہیں۔ تا شاد حیرت کے مردم نکونند حیرت با۔ (ف) (ش) جب تک کوئی اعلیت نہیں ہوتی۔ سخا عخواہ لوگ بہت کچھ بڑھا کر نہیں کہتے۔ تا دقتیکہ۔ (ف) اس وقت تک۔ جب تک۔ تا ہم۔ (ف) پھر بھی۔ اس پر بھی۔ تا ب۔ (ف) ع۔ (مٹ) (۱) روشنی۔ نور۔ چمک (۲) گرمی۔ حرارت (۳) پیچ و خم۔ بل۔ بچیدگی (۴) طاقت۔ قدرت۔ مجال (۵) برداشت۔ صبر۔ تحمل (۶) رنج و سختی، آب۔ جلاہ (۷) لاشقہ، پھلنے والا۔ روشن کرنے والا۔ جیسے شب تا ب۔

تاب باقی نہ رہنا۔ (ا۔ محاورہ) ضبط نہ ہو سکا (۲) چمک نہ رہنا۔ تاب خانہ۔ (ف) مذ۔ گرم کمرہ۔ تاب دادہ۔ (ف) صفت) مروڑا ہوا۔ بُل دیا ہوا۔ تاب دار۔ (ف) صفت) آباہاں۔ براق۔ روشن۔ چمکتا ہوا (۳) پیچ دار غمزدہ تاب دان۔ (ف) مذ) روشن دان۔ روزن۔ کھڑکی۔ تاب دینا۔ (ا۔ ص) (۱) روشن کرنا۔ چمک دینا (۲) تیز کرنا (۳) مروڑنا۔ تاب رہنا۔ برداشت کرنا۔ صبر کرنا۔ عموماً نفی کے ساتھ استعمال ہوتا ہے جیسے تاب نہ رہنا۔ تاب ضبط نہ رہنا۔ (ا۔ محاورہ) ضبط کی طاقت نہ رہنا۔ تاب کار۔ گرم تاب۔ شعاع زن جس میں گرم تابی سے برق پیدا وغیرہ کو متاثر کرنے کی قوت ہو۔ تاب کاری۔ گرم تابی۔ شعاع زنی۔ (Radio-Activity) تاب کھانا۔ مروڑ لھانا۔ بل کھانا۔ تاب لگی۔ (ف) مذ) چمک کا قوا۔ تاب لانا۔ برداشت کرنا۔ تحمل ہونا۔ تاب مقاومت نہ لانا۔ (ا۔ محاورہ) مقابلے کی طاقت نہ رکھنا۔ تابناک۔ (ف) صفت) (۱) روشن۔ چمکیلا (۲) چمبندہ۔ تاب نہ رہنا۔ (ا۔ محاورہ) برداشت نہ رہنا (۳) چمک جاتے رہنا۔ بلے و زنی ہونا۔ تاب نہ لانا۔ (ا۔ محاورہ) برداشت نہ کر سکا۔ گھبرا جانا۔ تاب و تب۔ سخت گرمی۔ جلن۔ لے لے قراری۔ تاب و توان۔ (طاقت) (۱) مجال۔ (۲) قدر (۳) ظرف۔ جو صلہ صبر تحمل برداشت۔ تاباں۔ (تاہاں) (ف) صفت) (۱) روشن۔ درخشانی۔ چمک دار۔ نورانی (۲) بچیدہ۔ ہمدار (۳) دہلی کے مشہور شاعر میر عبدالحی کا خلیفہ۔ تابانی۔ (تاہا۔ نی) (ف) (مٹ) روشنی۔ نور۔ چمک۔ تابڑ توڑ۔ (تا۔ بڑ۔ توڑ) (ع۔ صفت) متواتر۔ لگاتار۔ پیہم۔ اوپر تلے۔ تابستان۔ (تاہیس۔ تان) (ف) (ا۔ مذ) گرمی۔ موسم گرما۔ تابستانی۔ (تاہیس۔ تانی) (ف) صفت) موسم گرما سے منسوب۔ موسم گرما کا۔ تابش (تاہش) (ف) (مٹ) (۱) حرارت۔ گرمی۔ تپش (۲) چمک۔ دھوپ کی چمک۔ روشنی۔ نور۔ تابش آفتاب (ف) (مٹ) سورج کی گرمی۔ دھوپ کی چمک۔ تابح۔ (تا۔ بح) (ع۔ صفت) (۱) ماتحت۔ مطیع۔ فرماں بردار۔ (۲) ملازم۔ نوکر۔ جمع، اتباع۔ توابع۔ تابعدار۔ لغوی معنی "تابع رکھنے والا" مگر عام طور پر مطیع و فرمانبردار کے

معنی میں استعمال ہوتا ہے (لفظ العام) جمع : تابعداران۔
 تابعداری - (ف. مٹ) (۱) فرمانبرداری۔ (۲) اطاعت (۳) نوکری۔ ملازمت
 تابعداری کرنا (۱) محاورہ (۲) اطاعت کرنا حکم ماننا (۳) نوکری کرنا۔ ملازمت کرنا۔
 تابع فرمان (ف. مٹ) - ص. ص. حکم کا تابع۔ فرمانبردار۔
 تابع مرتبی مالک (ف. مٹ) (ف. صفت) (قانون) وہ کاشت کار جو مالک کی مرضی
 کے تابع ہو۔ خود کسی امر کا مجاز نہ ہو۔
 تابع ہمل (ف. مٹ) وہ بے معنی لفظ جو معنی دار لفظ کے ساتھ بطور ربط کے
 بولا جائے جیسے سچ بچ اور بھوٹ ٹوٹ میں سچ اور ٹوٹ۔
 تابعی (ت. ب. جی) (ع. صفت) محدثین کی اصطلاح میں وہ مسلمان شخص جس نے
 اصحاب رسول اللہ کو دیکھا ہو۔ جمع : تابعین۔
 تابعین (ت. ب. عین) (ع. صفت) (۱) تابع کی جمع (۲) مسلمانوں کا وہ گروہ،
 جس نے ایک یا ایک سے زیادہ مرتبہ اصحاب رسول اللہ کی زیارت کی
 ہو۔ (محدثین کی اصطلاح)
 تابلو - (Tableau) (ت. ب. لو) (انگ) (۱) مڈ کسی واقعے یا کہانی کی
 خاموش اداکاری۔
 تابندہ - (ت. ب. زین) (وہ) (ف. صفت) چمکتا ہوا۔ روشن۔ نورانی۔
 تابندگی (ت. ب. بن) (وہ) (ف. مٹ) روشنی۔ چمک۔
 تابوت (ت. ب. بوت) (ع. مٹ) (۱) وہ صندوق جس میں مردے کی نش رکھتے
 ہیں۔ (۲) لاش۔ جنازہ (۳) ایک قسم کا تعزیر۔
 تابوت اٹھنا (۱) محاورہ (جنازہ اٹھنا)۔
 تابہ (ت. ب. بی) (ف. مٹ) (۱) پیچیدہ۔ بل کھایا ہوا (۲) تاباں۔ روشن (۳) تو
 وہ ابھی نظر میں پڑتی تھی ہے اور بے محام میں بھی لگتے ہیں۔
 تابیدہ (ت. ب. بی) (وہ) (ف. صفت) (۱) پیچیدہ۔ بل کھایا ہوا (۲) تاباں۔ روشن
 جمع : تابیدگان۔
 تاب (وہ) (مٹ) (۱) حرارت۔ گرمی (۲) تپ۔ بخار۔ سوزش۔ مصیبت۔
 (۳) غصہ۔ جوش۔
 تاب ٹی (وہ) (مٹ) (وہ) (مٹ) (۱) طحال۔ تلی کا بڑھ جانا۔
 تاب بڑھنا (۱) محاورہ (بخار ہونا)۔
 تاب تختہ (وہ) (مٹ) (۱) بالے کا بخار۔ لرزہ۔
 تابا کرنا۔ تپتے رہنا (ت. ب. پ. نا) (ت. ب. تے) (رہنا) (وہ) محاورہ (سیکا کرنا) سیکھنے
 تاپنا (ت. ب. نا) (وہ) (مٹ) (۱) گرمی پہنچانا۔ سیکھنا۔ گرم ہونا (۲) آگ سے لپٹھ پالنی
 سیکھنا (۳) دھوپ کھانا۔
 تاپا (وہ) (مٹ) (۱) ایک معدنی شے۔ ہیرا کیس۔
 تاپ (س. مٹ) (۱) باپ (۲) سوز۔ کرم (۳) بزرگ۔ بڑا (۴) پیارا۔
 تاپا۔ (ت. ب. نا) (وہ) (مٹ) (۱) گرم۔ گرم۔ گرم کیا ہوا۔
 تاپا تھنی۔ تاپا تھنا۔ تاپا تھنا۔ (۱) تپا۔ تپا۔ تپا۔ (وہ) (مٹ) (۱) ایک گلہ جس کو
 تپانے والے تاپ پر آنے کے لئے زبان اور تھیلی سے ادا کرتے ہیں۔
 تاپ رت (مٹ) (ع. مٹ) (۱) مڈ (۲) اڑھتول کرنا۔ اثر رہنا۔
 تاثیر (ت. ب. شمس) (ع. مٹ) (۱) نشان (۲) نتیجہ۔ پھل (۳) اثر۔ عمل۔ خاصیت۔ گن۔

تاثیر کرنا - (۱) محاورہ (اثر کرنا۔ سرایت کرنا)۔
 تاج - (ع. مٹ) (۱) مذکر، شاہی ٹوپی۔ کٹ۔ (۲) افسر (۳) پروں کا قطرہ۔ کھنی۔ پرند کی چوٹی
 جیسے تاج ہڈی (۳) فقروں کی خاص قسم کی ٹوپی (۴) گھنے کا ایک رنگ (۵)
 دیوار کی گھنٹی۔ وہ گن دار برہمی جو کسی دیوار یا مکان کے اوپر بنا دیتے ہیں۔
 تاج بخش - ہشتشاہ۔ بڑا بادشاہ۔ وہ بادشاہ جو اردوں کو بادشاہ بنا سکے۔
 تاج بخشی کرنا - (۱) محاورہ (سلطنت بخش۔ بادشاہی دینا)۔
 تاج پوشی - (ف. مٹ) تاج پہننا۔
 تاج خردس - (ف. مٹ) (۱) مرغ کے سر کی کھنی (۲) ایک قسم کا مرغ پھول۔
 تاجدار - (ع. ف. صفت) بادشاہ۔ صاحب تاج۔ تاج والا۔ جمع : تاجداران۔
 تاجداری - (ف. مٹ) سلطنت۔ ملک۔ حکومت۔
 تاج رکھنا - (۱) محاورہ (بادشاہ بنا۔ تاج پہننا)۔
 تاج سر سے کرنا - (۱) محاورہ (بادشاہی جانی رہنا)۔
 تاج شمع - (ف. مٹ) شمع کا شعلہ۔
 تاج فیروزہ - (ف. مٹ) شمع کا تاج۔
 تاجوز - (ف. صفت) بادشاہ۔ صاحب تاج۔ جمع : تاجوزان۔
 تاجوری - (ف. مٹ) بادشاہی۔
 تاج ہڈی - (ع. ف. صفت) ہڈی کی کھنی۔
 تاجر - (ت. ب. ج) (ع. مٹ) سوداگر۔ تجارت کرنے والا۔ بیوپاری۔ جمع : تاجران۔
 تاجری - (ت. ب. ری) (ف. مٹ) سوداگری۔ تجارت کا پیشہ۔
 تاجیل - (ع. صفت) ہمت دینا۔ مدت معین کرنا (۲) بند کرنا۔ روکنا۔
 تاجت - (ف. مٹ) (۱) لوٹ۔ تاجر (۲) حملہ۔ دھاوا۔
 تاجت و تاراج کرنا۔ برباد کرنا۔ تباہ کرنا۔ لوٹ لینا۔ ستیاناس کرنا۔ تباہ کرنا۔
 تاجرت - (ت. ب. آخ) (ع. مٹ) (۱) تاجیچھے ہونا (۲) دیر کرنا (۳) عمر یا رستے
 میں کم ہونا۔
 تاجیر - (ت. ب. تیر) (ع. مٹ) (۱) تاجیچھوڑنا (۲) طویل۔ توقف۔ وقفہ۔
 تادیب - (ت. ب. دیب) (ع. مٹ) (۱) تہیہ۔ تہیہ نمائی (۲) ادب سکھانا۔ (۳)
 علم زبان سکھانا۔
 تادیبی - (ت. ب. دی) (ع. مٹ) (۱) تہیہ سے متعلق۔
 تادیبی کارروائی - (ع. ف. مٹ) ایسی کارروائی جس سے نظم و ضبط قائم
 رہے۔ انضباطی کارروائی۔
 تار - (ف. مٹ) (۱) تار کا ٹکڑا۔ دھاگا (۲) کسی دھات وغیرہ کا لمبا اور گول ڈور اور (۳) تارنا
 (۴) سلسلہ (۵) ریزہ۔ پارہ (۶) قوام کا پیپ (۷) قابل خطوط پر رونے کا تار۔
 (۸) تار برقی (۹) وہ خبر جو تار کے ذریعے آئے (۱۰) انحصار۔ تارکی (۱۱) پھل
 اچھوٹی۔ زیور کا حصہ (۱۲) بادلا۔
 تار باجو - (۱) مڈ (۲) دھاگا یا تار جو تار کے ذریعے خبر بھیجے اور وصول کرے۔
 تار باراں - (ف. مٹ) مینے کے پانی کا سلسلہ۔
 تار باقی نہ چھوڑنا - (۱) محاورہ (ایک دھاگا نہ رہنے دینا)۔
 تار باندھنا - (۱) محاورہ (کسی کام کا سلسلہ کرنا) سلسلہ باندھنا۔

تارنگٹا۔ (۱- محاورہ) (۱) کسی کپڑے میں کشے کے واسطے دھاگے نکالنا (۲) پتھر لگانا (۳) باریک اور لمبی سوتیاں بنانا۔
 تار (نگہ) نگاہ۔ (دفعہ) نظر۔ نگاہ کا سلسلہ۔
 تار نہ ٹوٹے۔ (۱- محاورہ) کام نہ رکنے کے سلسلہ نہ بند ہونا۔
 تار و پود۔ (دفعہ) تارنا بانا۔
 تارا۔ (۱- ذ) (۱) تارا (۲) آٹھ کی پتلی (۳) نہایت لمبے یا دور فاصلے کی چیز جو ذرا سی معلوم ہو (۴) ترمز اور کسی دماغی حد سے کی باعث آنکھ کے سامنے نظر آگئے۔
 تارا ٹوٹنا۔ رات کو کسی تار سے روشنی نکل کر گزنا۔
 تارا جھلکانا۔ برسات کے موسم میں تاروں کا مدھم سا جھکانا۔
 تارا جھکانا۔ (۱- محاورہ) (۱) ستارہ روشن ہونا (۲) عروج ہونا۔ ترقی ہونا۔
 تارا ڈوبنا۔ (۱- محاورہ) (۱) ستارہ غروب ہونا (۲) بد قسمتی ہونا۔ نخست چھانا (۳) ذہن کا غروب ہونا (جو تخیل کی اصطلاح)
 تاراسی آنکھیں ہو جانا۔ (۱- محاورہ) آنکھوں کی بیماری جاتی رہنا۔ آشوب دور ہونا۔
 تارا منڈل۔ (۱- ذ) (۱) تاروں کا حلقہ یا کنڈل (۲) ایک قسم کی آتش بازی۔
 تارا ہو جانا۔ (۱- محاورہ) (۱) نہایت بلند اور اونچا ہو جانا (۲) بہت پیچھے چلے جانا (۳) کسی چیز کا اقتدار دور ہو جانا کہ بہت ہی چھوٹی نظر آنے لگے۔
 تاروں کی الجھن۔ (۱- معنی) بہت تارے جو صاف رات میں دکھائی دیں۔ تاروں کا جھگٹنا۔
 تاروں کی جھالوں۔ (۱- معنی) (۱) تاروں کی روشنی (۲) پھیل رات۔ ٹوٹے تڑپکر۔ علی الصبح۔ فجر دم۔
 تاروں کی محفل۔ (۱- معنی) (۱) تاروں کا جھنڈ (۲) نورانی محفل (۳) مجازاً حسینوں کا مجمع۔
 تاروں کی گرو۔ (۱- معنی) چند تاروں کے ایک جگہ جمع ہو جانے کا اثر (تجزیوں کی اصطلاح)
 تارے آتارنا۔ (۱- محاورہ) (۱) تارے توڑنا (۲) روشنی کرنا۔ عور کرنا (۳) آسمان میں تھکی لگانا (۴) مجازاً بہت مشکل کام انجام دینا۔
 تارے توڑنا۔ (۱- محاورہ) (۱) ایسا کام کرنا جو دوسروں سے نہ ہو سکے۔ (۲) عیاری کرنا۔ چالاک کرنا۔
 تارے ٹانگنا۔ (۱- محاورہ) سونے چاندی کے تاروں کو کپڑے میں سینا۔
 تارے جھلکانا۔ (۱- محاورہ) (۱) تارے کھلانا۔ مطلع صاف ہو کر تاروں کا نکل آنا (۲) تارے چھکانا۔
 تارے دار۔ وہ چیز جس میں تارے ٹٹکے ہوئے ہوں۔
 تارے دکھانا۔ (۱) مسلمان عورتوں کی رسم ہے: چھٹی کے روز زچہ کو ہنڈی چلا کر وہیں بناتے ہیں اور اس کی گود بھر کر چھٹی میں روشنی دکھاتے ہیں۔ منہ پر قرآن پڑھتے ہیں اور (۲) کبوتر تاروں میں دستور سے کہ وہ کبوتر کو جو بلند پرواز ہوتا ہے اور رات بھر اڑتا رہتا ہے تارے یا چراغ اس طرح دکھاتے ہیں کہ چھلنی اس کے منہ پر رکھ دیتے ہیں تاکہ تاروں میں اڑنے سے مانوس ہو جائے (۳) بد عواض کر دینا۔

تاربتار ہونا (۱) برانگہ ہونا غیر مسلسل ہونا (۲) برامال ہونا۔ پتلا حال ہونا۔
 تاربتار بنانا یا کام پڑھانا۔
 تار برقی۔ (۱) وہ تار جو بجلی کی قوت سے ایک جگہ سے دوسری جگہ خبر پہنچائے۔ (۲) وہ خبر جو تار کے ذریعے آئے۔
 تار بندی۔ بجلی کی تار نصب کرنا۔
 تار بندھنا۔ (۱- محاورہ) (۱) کبھی کام کاپنے درپے ہونا (۲) قوام کا چھپ دار ہونا۔
 تار بھینچنا۔ (۱- محاورہ) (۱) تار برقی کے ذریعے خبر بھینچنا۔
 تار تار۔ تتر بتر پریشان۔
 تار تار۔ (دفعہ) (۱) ٹھٹھے ٹھٹھے۔ بوسیدہ۔ بہت زیادہ پھینا ہوا کپڑا۔ رزہ رزہ (۲) ہر ایک تار۔ ذرا ذرا کپڑا (۳) تمام زیر (۴) صاف صاف۔ مفضل نکل کر قیام۔
 تار تار بچکانا۔ (۱- محاورہ) سارا زیر یک جا کرنا۔
 تار تار بولنا۔ (۱- محاورہ) ہر ایک لفظ جدا جدا بولنا۔
 تار تار کرنا۔ (۱- محاورہ) کپڑا ٹھٹھے ٹھٹھے کرنا۔ پھاڑنا۔
 تار تار نگا۔ (۱- معنی) پھر پھر۔ نہایت پتلا۔ دور دور بناوٹ کا۔
 تار تار۔ (۱- ذ) (۱) بڑی ندی۔
 تار تار۔ روشنی کی کرن۔
 تار توڑ۔ (۱- معنی) جوئی کام۔ ایک قسم کا سوتی کا کام جو کپڑے پر ہوتا ہے۔
 تار ٹوٹنا۔ (۱- محاورہ) سلسلہ ٹوٹنا۔ سانس بند ہو جانا (۲) پہلے کام میں سرخ واقع ہونا۔ تیز پڑنا۔
 تار چڑھانا۔ (۱- محاورہ) ستار کے تار بھینچنا۔ تار لگانا۔
 تار چڑھکانا۔ (۱- محاورہ) تاروں کو ٹھٹھے کر گونے کے لئے چوڑا کرنا۔
 تار دھینکا۔ (۱- محاورہ) قوام یا چاشنی کی تیاری کا حال معلوم کرنا۔
 تار دینا۔ (۱- محاورہ) تار برقی کے ذریعے خبر بھینچنا۔
 تار شعاع۔ (دفعہ) (۱) روشنی کی کرن۔
 تار شمار۔ (دفعہ) (۱) ایک کپڑے کا نام جس سے ڈھنوں کے ٹپتے بنا جلتے ہیں۔
 تار کھینچنا۔ (دفعہ) (۱) لکڑی کا جھالا۔
 تار کش۔ (دفعہ) (۱) سونے چاندی کے تاروں کو کھینچ کر لمبا اور باریک کرنے والا۔ (۲) ہنسر سے روپیے تاروں والا ایک کپڑا۔
 تار کشی۔ (دفعہ) (۱) تار کھینچنے کا کام یا پیشہ۔
 تار کھینچنا۔ (۱- محاورہ) تار کا کشید ہونا۔ تار کو باریک کرنا۔
 تار کھینچنا۔ (۱- محاورہ) تار نکالنا۔
 تار گھر پھیلوانا۔ (دفعہ) (۱) وہ جگہ جہاں سے تار کے ذریعے خبر روانہ ہوتی ہے۔
 تار لگانا۔ (۱- محاورہ) سلسلہ بانڈھنا (۲) لگاتار کیے چلا جانا (۳) بٹے کھڑے کر کے اس پر بجلی پہنچانے کے لئے تار بانڈھنا۔
 تار لگانا رکھنا۔ (۱- محاورہ) تھک لگانا پھوڑنا۔ کسر باقی نہ رکھنا۔
 تار لگانا رہنا۔ (۱- محاورہ) کسر باقی نہ رہنا۔
 تار مسطر۔ (دفعہ) (۱) وہ دھاگا جو مسطر میں کیر میں کھینچنے کے لئے لگاتے ہیں۔
 تار نفس۔ (دفعہ) (۱) سانس کا سلسلہ۔
 تار نکالنا۔ (۱) کپڑے میں سے تارے نکالنا (۲) پتہ لگانا۔ سراغ نکالنا (۳) باریک اور لمبی سوتیاں بنانا۔

تارے دکھائی دینا۔ (۱- محاورہ) (۱) دماغی مدد سے یا کمزوری کے باعث آنکھوں کے سامنے ترسے نظر آنا (۲) بصیرت پڑجانا۔ جیسے تھوٹ جانا۔
 تارے کھلنا۔ (۱- محاورہ) صاف رات میں تارے نکلنا۔
 تارے کن کررات کاٹنا۔ (۱- محاورہ) رات بھر بے چینی سے جاگتے رہنا۔
 تارے لگنا۔ (۱- محاورہ) (۱) اختر شماری کرنا (۲) رات بھر جاگنا (۳) ہنایت پریشانی میں رات کاٹنا۔
 تارے نکل آنا۔ تارے نمودار ہونا۔ رات کی ابتداء ہونا۔
 تاراج۔ (۱) راج (۲) ف۔ (۱- مذ) ٹوٹ۔ غارت۔ بربادی۔
 تارا بجگاہ۔ ٹوٹ کی جگہ۔
 تاران گر۔ غارت گر۔ ٹوٹنے والا۔
 تارا میرا۔ (۱- مذ) مسروں سے مشابہ بیج، جن سے تیل نکالتے ہیں۔
 تارپڈو۔ (Torpedo) (تار۔ پی۔ ڈو) (انگ۔ ۱- مذ) سگار کی شکل کا ایک آتشہ، جو پانی کے نیچے تیرتا اور دشمن کے جہاز کو غرق کر دیتا ہے۔
 تحت البخیرہ۔ ایک دوز۔
 تارپین۔ (Turpentine) (تار۔ پین) (انگ۔ ۱- مذ) گندابیروزا۔
 تارپین کا تیل۔ گندے ہر دوزے کا تیل۔
 تاریخ۔ (۱) تاریخ (۲) ق۔ (۱- مذ) تالو۔
 تارک۔ (تارک) (ع) صف تیاگی بچھوٹنے والا ترک کرنے والا۔ جمع: تارکین۔
 تارک الدنیا۔ (ع) صف، وہ شخص جس نے دنیوی تعلقات ترک کر دیئے ہوں۔ گوشہ نشین۔
 تارک الصلوٰۃ۔ بے نماز۔ نماز ترک کرنے والا۔
 تارگ۔ (تارگ) (ف۔ ۱- مذ) (۱) مانگ (۲) ایک قسم کی ٹوپی (۳) سر کے اوپر کا حصہ (۴) پہاڑ کی چوٹی (۵) لوسے کا خود۔
 تارکول۔ (Tarcoal) (تار۔ کول) (انگ۔ ۱- مذ) رال۔ قیر۔ لک کا تیل۔
 تاریخ۔ (تاریخ) (ع) امت (۱) ایک دن رات۔ مہینے کا ایک دن (۲) گما چیز کے ظہور کا وقت (۳) وہ فن یا کتاب جس میں بادشاہوں اور مشہور آدمیوں کے حالات پیدائش و وفات درج ہوں (۴) حملے۔ شہر یا فخرے جن کے عدد نکلنے سے مادہ تاریخ نکل آئے (۵) روایات، قصے، افسانے (۶) جنگ نامے۔ جمع: تواریخ۔
 تاریخ ارجح۔ (ع) امت مقدمہ اور ہونے یا پہلی درخواست گزرنے کی تاریخ۔
 تاریخ اسکندری۔ (ف) مٹ (۱) وہ جس پر مشورہ قبل مسیح سے شروع ہوتا ہے۔
 تاریخ پڑنا۔ (۱- محاورہ) مقدمے کی سماعت کے لئے تاریخ مقرر ہونا۔
 تاریخ پھرنانا۔ دن مقرر کرنا (خاص طور پر شادی کا)۔
 تاریخ پھرنانا۔ (۱- محاورہ) نسبت سیاہ یا سن اور تقریب کا دن مقرر ہونا۔
 تاریخ چیلجانا۔ (۱- محاورہ) کاغذات پر تاریخ لکھنا۔
 تاریخ چسپائی۔ مقدمات کی پیشی کی تاریخوں کا ترتیب وار لوہڑ پرجیاں کرنا۔
 تاریخ دان۔ (ع) ف۔ صف، فن تاریخ سے واقف مورخ۔
 تاریخ دینا۔ (۱- محاورہ) پیشکار عدالت کا کاغذ پر مقدمے کی تاریخ لکھ کر عدالت والوں کو دینا۔

تاریخ ڈالنا۔ (۱- محاورہ) مقدمے کی سماعت کے لئے دن مقرر کرنا۔
 تاریخ نکلونا۔ دعویٰ۔ دعوے کا سبب قائم ہونے کی تاریخ۔
 تاریخ لگنا۔ (۱- محاورہ) کسی واقعے کو نظم یا شعر میں بحساب ایجاد ظاہر کرنا جس سے واقعہ مذکور کا سن معلوم ہو سکے۔
 تاریخ لکھنا۔ (۱) دیکھنے تاریخ لگنا (۲) کاغذات پر تاریخ تحریر کرنا (۳) کسی قوم یا ملک کے حالات و واقعات ترتیب وار لکھنا۔
 تاریخ مقرر کرنا۔ (۱- محاورہ) مقدمے کی سماعت کے لئے دن مقرر کرنا۔
 تاریخ مقررہ۔ (۱- ع) صف، وہ دن جو کسی خاص کام کیلئے مقرر کیا جائے۔
 تاریخ وار۔ (ف) ہر تاریخ کا۔ تاریخ کے حساب سے سلسلہ وار۔
 تاریخچی۔ (تاریخچی) (ع) ف۔ صف (۱) تاریخ سے منسوب (۲) یادگار (۳) خاص۔ نمایاں۔
 تاریخی واقعات۔ (ع) ۱- مذ (۱) واقعات جو کتاب تاریخ میں آگئے ہوں (۲) واقعات (۳) سب سے واقعات۔
 تاریک۔ (تاریک) (ف) صف (۱) سیاہ۔ کالا۔ مکدر (۲) دھند۔ اندھیرا۔
 تاریک چشم۔ (ف) صف (۱) کوتاہ نظر (۲) جسے رات کو دکھائی نہ دے۔
 تاریک دل۔ (ف) صف، سیاہ دل۔ بد باطن۔ کینہ پرور۔
 تاریک کرنا۔ (ص) مرکب، سیاہ کر دینا۔ اندھیرا کر دینا۔
 تاریک ہونا۔ اندھیرا ہونا۔ کچھ نظر نہ آنا۔
 تاریکی۔ (تاریکی) (کی) (ف) ۱- مٹ (۲) ظلمت۔ سیاہی۔ اندھیرا (۳) دھندلا پن۔
 تاریکی آمانا۔ تاریکی بھاجانا۔ تاریکی بھاننا۔ (۱- محاورہ) اندھیرا ہو جانا۔
 تاریکی دور ہونا۔ (۱- محاورہ) اندھیرا غائب ہونا۔ اُجھلا ہونا۔ روشنی ہونا۔
 تاریکی شب۔ (ف) صف، رات کا اندھیرا۔
 تاری۔ (تاری) (۱- مذ) (۱) کھجور کی قسم کا ایک درخت جس سے تاڑی نکالتے ہیں (۲) فراست۔ سمجھ۔
 تاڑ بازو۔ (ف) صف (۱) زود فہم سمجھدار (۲) عورتوں کو گھوڑنے والا۔
 تاڑ بازی۔ (۱) فہم۔ فراست (۲) نظر بازی۔ نظارہ بازی۔
 تاڑ جانا۔ لینا۔ (۱- محاورہ) بھاننا لینا۔ قیلنے سے پہچان لینا۔
 تاڑ کا ساقد۔ (۱- صف) بہت لپٹا قد۔
 تاڑا۔ (تارا) (ق) ۱- مذ (۱) طاقت۔ زور۔ شدت (۲) غمزہ۔ سخن۔
 تاڑا تنگا۔ ناز سخن (ق)۔
 تاڑنا۔ (تاڑنا) (نا) (ع) مٹ (۱) کسی علامت کے بغیر پہچاننا۔ سمجھ جانا۔ بھانپنا۔
 (۲) قیلنے یا علامت سے پہچاننا (۳) نکالنا۔ دھتکارنا (۴) دوسرے کی بات کا بھانپنا (۵) ڈھٹانا۔ پٹیٹا۔ مارنا۔
 تاڑنی۔ (تاڑنی) (ئی) (۱- مٹ) چابک۔
 تاڑو۔ (تاڑو) (ذ) صف، تاڑنے والا۔ بھانپنے والا۔ قیاد فرشتا۔
 تاڑی۔ (تاڑی) (ئی) (۱- مٹ) (۱) تاڑ کا نشہ آور رس (۲) گٹار کا قبضہ۔
 تاڑو۔ (ف) (۱) دوڑ۔ بھاگ (۲) حملہ۔ چڑھائی۔ لشکر کشی۔ دوسرے الفاظ سے ل کر اسم فاعل کے معنی دیتا ہے۔ جیسے ترک تاز۔
 تازگی۔ (تازگی) (ف) (۱- مٹ) (۱) سرسبزی۔ طراوت (۲) جدت۔ میانہ رفتی۔

تازہ - (تازہ) (ف صفت) (۱) نیا - جدید (۲) ہر اس چیز پر سے (۳) ڈال کا ٹوٹا ہوا (۴) موٹا - فزیر (۵) تندرست - بے تکلیف (۶) گرم - نوبت (۷) حال کا کیا ہوا (وضو)

تازہ بات - (۱) مٹھ (۲) نئی بات (۳) عجیب بات -

تازہ بدن - (ف) - (۱) مذ موٹا بدن - فزیر -

تازہ بہ تازہ - فزیر نو - (ف صفت) (۱) نیا - جدید (۲) گرم (۳) ڈال کا ٹوٹا (۴) نیا سوجھا ہوا -

تازہ بہار - (ف مٹھ) تازگی - شگفتہ - جوین -

تازہ ٹوٹا - (ف صفت) (۱) موٹا تازہ (۲) نوجوان اور مضبوط -

تازہ خیال - (ف صفت) جسے ہر دوشہ نئی بات مٹھے - نئی بات نکالنے والا -

تازہ دم - (ف صفت) مستند - جسٹ - توانا - تکلیف آزا ہوا -

تازہ دماغ - (ف صفت) جس کا دماغ تھکا ہوا نہ ہو عقل مند -

تازہ دماغی - (ف) - (۱) مٹھ (۲) دانائی -

تازہ رُو - (ف صفت) شگفتہ - زور - باشاش -

تازہ شکوفہ - (ف صفت) (۱) نئی بات (۲) انوکھی بات (۳) نئی شہرت -

تازہ شکوفہ (پھولنا) کھلنا - (۱) محاورہ (۲) نئی بات ہونا - انوکھی بات ہونا (۳) بدنامی کی بات ہونا -

تازہ شکوفہ چھوڑنا - (۱) محاورہ (۲) انوکھی بات کہنا -

تازہ فقہ - (ف) - (۱) مذ نئی خیال - فزیر - چوکا -

تازہ کار - (ف صفت) (۱) نیا کام کرنے والا (۲) عجیب -

تازہ کرنا - (۱) محاورہ (۲) تازگی بخشنا - پزیر مروتی ڈور کرنا (۳) یاد دلانا (۴) ہر کرنا جیسے علم تازہ کرنا (۲) تھے کا پانی بدلنا (۵) پہلانا - خوش کرنا (۶) تھکان آ کرنا -

تازہ گل (پھولنا) کھلنا - (۱) محاورہ (۲) نیا معاملہ واقع ہونا - نیا معاملہ پیش آنا - انوکھی بات

تازہ مشق - (ف صفت) زوشق - نیک - پندری -

تازہ واررد - (ف) - (۱) مذ نو وارد حال کا آیا ہوا -

تازہ وتر - (ف صفت) تر و تازہ - ہر ابھرا - شاداب - شگفتہ -

تازہ ولایت - (ف صفت) (۱) نو وارد - بروسی (۲) وہ شخص جو دوسرے کی زبان نہ سمجھے (۳) بے وقوف - سادہ لوح -

تازہ ہونا - (۱) محاورہ (۲) ہر سبز ہونا (۳) جان آنا (۴) سستا نا (۵) موٹا ہونا (۶) گرم کرنا ہونا - نیا ہونا -

تازی - (تازی) (ف صفت) (۱) عربی (۲) عرب کا گھوڑا یا شکاری کتا (۳) عربی زبان (۴) وہ حرفت جو بھی نہ ہوں (۵) تازہ کی تائیت - باسی کی ضد -

تازی بات - (۱) مٹھ نئی بات - نیا معاملہ -

تازی پیر نہ پس چلا - ترکی کے کان اٹھنے - (۱) زبردست سے مجبور ہو کر کسی عاجز کو تانے کے موقع پر بولتے ہیں -

تازی چبانے - (ف) - (۱) مذ کٹوں کا ٹولید -

تازی کتا - (۱) پیلی کمر کا شکاری کتا (۲) مجازی کتا -

تازی مارا ترکی کا نیا - (۱) تازی (۲) ایک کی منہ سے دوسرے کو جھرت ہوتی ہے -

تازی مار کھانے تیزی آس پائے - (۱) لیاقت والوں کی تباہی اور نالائقوں کی اقبال مندی پر ہوتے ہیں -

تازی نثر - (ف صفت) عربی نثر کا گھوڑے کی تعریف میں کہا جاتا ہے (۱) تازیانہ - (۲) زبیر یا نہ (ف) - (۱) مذ کوٹا - چابک بچی -

تازیانہ کھانا - (۱) محاورہ (۲) کوڑے کی مار کھانا -

تازیانہ ہونا - (۱) محاورہ (۲) تہیہ ہونا - چابک پڑنا -

تاس - (ف) - (۱) مذ بڑا پشت - تلسلا -

تاسف - (ت) - (۱) اس صفت (۲) (۱) مذ انوس حسرت - پچھتاوا - رنج - ملال -

تاسا - (تاس) - (ت) - (۱) مذ (۲) نص (۳) رشاب کشت کرنا -

تاسہ زتا - (ت) - (۱) مذ ایک قسم کا دوف -

تاسیس (تاسیس) - (ت) - (۱) مٹھ (۲) جڑ بنیاد - نیو (۳) علم عرض کی اصطلاح میں وہ الف ساکن جس کے اور روی کے درمیان ایک حرف متحرک واسطہ ہو جیسے "خاؤر" اور "باز" کا الف (۳) علم معانی کی اصطلاح میں ایک ایسا لفظ لانا جو پہلے لفظ سے زائد معنی رکھتا ہو - جیسے علم حکیم (۴) علم حکیم کے معنی جاننے والا - اور حکیم کے معنی جاننے والا اور کرنے والا) جمع: تاسیسات -

تاش - (ت) - (۱) مذ (۲) ایک قسم کا ریشمی زری کا کپڑا - زر بفت - بادلہ (۳) ایک قسم کے پتوں کا کھیل (۴) تاشت -

تاش بزم و کج - (۱) مذ (۲) بے جوڑ بات -

تاشا تاشہ - (تاشا تاشہ) - (۱) مذ ایک قسم کے دھ کا نام ہے جسے گلے میں ڈال کر زیبائے ہیں -

تاقان - (تاق) تاق (۱) مٹھ (۲) ایک قسم کے موٹے کناروں کی نہایت ملائم خمیری روٹی (۲) ہر دہ چیز جو آفتاب یا آگ سے گرم ہو گئی ہو -

تاقہ - (تاق) (ت) - (۱) مذ (۲) ایک قسم کا جھیلاری کپڑا - استبرق (۳) ایک خاص رنگ کا گھوڑا یا کبوتر (۳) روشن مٹھ (۴) گرم (۵) بیل رہا ہوا - پٹا ہوا -

تاقی - (تاقی) (ف صفت) (۱) وہ گھوڑا جس کی دونوں آنکھیں ایک رنگ کی نہ ہوں (۲) عجیب دار - منحوس (۳) ٹوٹی -

تاگ - (ت) - (۱) مذ مٹھ (۲) انگور کی پیل (۳) نشہ (۴) نگاہ چٹکی (۵) گھات -

کین (۶) انتظار (۷) نشانہ (۸) دیکھ بھال - بگرنی -

تاگ باک - (۱) مٹھ عین وقت یا موقع -

تاگ بازی - (غلط ترکیب) -

تاگ باندھنا - (۱) محاورہ (۲) ہر بولنے جانا - بگنی باندھنا (۳) نشانہ باندھنا -

تاگ پر آنا - (۱) محاورہ (۲) کسی امید یا توقع پر آنا -

تاگ پر ملنا - (۱) محاورہ (۲) کسی چیز کا ضرورت کے وقت ملنا -

تاگ بچا تک - (۱) مٹھ نظر بازی - گھورا لگھاری -

تاگ رکھنا - (۱) محاورہ (۲) گھات میں لگے رہنا - ہوشیار ہونا (۳) پہلے سے پہچان رکھنا (۴) جان بچ رکھنا (۵) موقع تلاش کر رکھنا -

تاگ کر - (۱) سیدھ باندھ کر (۲) موقع دیکھ کر -

تاگ کر آنا - (۱) محاورہ (۲) جوڑ کر کے آنا - کسی کو دیکھ کر آنا -

تاک کر مارنا - (۱) محاورہ) مشت باندھ کر نشانہ لگانا - نشانہ نہ چرکنا۔
 تاک لگانا - (۱) گھات لگانا نظر رکھنا (۲) دانت رکھنا (۳) انتظار کرنا۔
 تاک لگنا - (۱) محاورہ) ٹکٹھی بندھنا۔
 تاک لینا - (۱) محاورہ) خبر لینا - وقت پر پہنچنا - وقت پر متیار کرنا بنگرانی کرنا۔
 تاک میں رکھنا - (۱) محاورہ) کسی کو نظر میں رکھنا۔
 تاک میں رہنا - (۱) محاورہ) تلاش میں رہنا - وقت کا انتظار کرنا گھات میں رہنا۔
 تاک میں لگنا - (۱) محاورہ) تلاش میں ہونا - گھات میں ہونا۔
 تاک میں ہونا - (۱) محاورہ) منظر رہنا - داؤد لگے کرہنا۔
 تاکا تاک - (تا - تاک) (۱) امت) ایک دوسرے کی طرف دیکھنا - نگاہیں پڑانا - نظر بازی۔
 تاکنا - (تاک - تا) (۱) محاورہ) ٹکھلی باندھ کر دیکھنا (۲) دیکھنا (۳) خیال کرنا - پہلے سے جان رکھنا (۴) جھانکنا جھپ کر دیکھنا (۵) تاڑنا - پچاننا۔
 (۶) نشانہ باندھنا (۷) انتظار کرنا (۸) پسند کرنا - انتخاب کرنا (۹) کسی چیز کی خواہش کرنا (۱۰) تلاش کرنا۔
 تاکو - (تا - کو) (۱) صفت) گھات میں رہنے والا - گھومنے والا۔
 تاکو لے جھاگو - (ایشل) موقع پکڑ لے جھانکے والا - پچکا - چور جیب کترا۔
 اٹھائی گیا۔
 تاکید - (تا - کید) (۱) صفت) (۲) اصرار - ضد - ہٹ (۳) تقاضا - کوشش۔
 (۴) بار بار کہنا - زور دینا۔
 تاکید الید - (۱) صفت) سخت حکم - سخت اصرار۔
 تاکید بلیغ - (۱) صفت) پوری تاکید - سخت تاکید۔
 تاکید شدید - (۱) صفت) سخت تاکید۔
 تاکید اُتاکیدین) زور ڈال کر - بڑے اصرار سے۔
 تاکید کرنا - (۱) اصرار سے کہنا - زور ڈالنا (۲) تقاضا کرنا (۳) سخت حکم دینا۔
 تاکیدی - (تا - کی) (۱) صفت) (۲) ف - صفت) (۳) زور دینا سخت (۴) اصرار کا۔
 تاکیدی حکم - (۱) صفت) ضروری حکم - سخت حکم۔
 تاکا - (تا - کا) (۱) مذکر) ڈورا - دھاکا - سوت کا تار۔
 تاکا (برونا) ڈالنا - (۱) محاورہ) سینے کے لئے سونے میں تاکا پرونا۔
 تاکے ڈالنا - (۱) محاورہ) روٹی دار یا دہرے کپڑے میں دھاگے اس عرض سے ڈالنا کہ روٹی کی تہ جی ہے، باہر اترے الگ نہ ہو جائے۔
 تاکڑی - تھوڑی - (تا - گڑی) - (تگ - گڑی) (۱) صفت) (۲) تاکے کا بٹا ہوا ڈورا (۳) زنجیر کی قسم کا ایک زیور جسے کمر میں باندھتے ہیں۔
 تاکنا - (تا - نا) (۱) محاورہ) دھاگا ڈالنا (۲) ہینا پڑنا (۳) سلائی کرنا (۴) تاکے ڈالنا (۵) گھٹنا۔
 تال - (۱) مذکر) (۲) تالاب (۳) عینک کا شیشہ (۴) پتھر (۵) گانے بجانے کا وزن (۶) (۷) نمونہ) بھرے کی جڑی - پتیل کی چھوٹی پھوٹی کٹوریوں جو ڈھوک یا پیلے کے ساتھ جھکتے ہیں - (۸) پھولوں کا خم ٹھونکنا۔
 تال اڑنا - (۱) محاورہ) تال کا ساز کے مطابق نہ ہونا۔
 تال بجا کے مانگے بھیک (۱) (۲) (۳) ان منگتوں پر طنز ہے، جو گھنے بجا اس کا جوگ رہا کے ٹھیک (۴) کر بھیک مانگتے ہیں۔

تال بے تال - (۱) صفت) بے سُر - لے سے ہٹا ہوا۔
 تال بے تال ہونا - (۱) بے سُر ہونا (۲) کسی کام کا اپنے سوتق و عمل پر نہ ہونا۔
 تال (پڑنا) دینا - (۱) محاورہ) گانے وزن اور سُر قائم رکھنے کے لئے قاعدے سے تالی بجانا - سہارا دینا۔
 تال ٹھونکنا - (۱) محاورہ) خم ٹھونکنا۔
 تال سے بے تال ہونا - (۱) محاورہ) سُر تان سے اگھڑ جانا - بے موقع تان لینا - سُر بے سُر ہو جانا۔
 تال مار کر اڑنا - (۱) محاورہ) پھیر پھرا کر ہوا میں بلند ہونا۔
 تال مارنا - (۱) محاورہ) (۲) خم ٹھونکنا (۳) خاموش رہنا (۴) تال مکھانا - (۱) مذکر) (۲) کنول گئے کا بیج۔
 تال میل - (تال - میل) (۱) مذکر) (۲) موافقت - موزونیت (۳) راہ درسم - میل - بول۔
 تال میل کھانا - (۱) محاورہ) (۲) موافقت ہونا - بیوگ ہونا - موزوں ہونا۔
 متناسبت ہونا (۳) تال کا سُر کے ساتھ مل جانا۔
 تالا - (تا - لا) (۱) مذکر) فضل۔
 تالا بھڑنا - (۱) محاورہ) (۲) فضل لگ جانا (۳) (۴) محاورہ) گھر اُچرنا۔
 تالا ٹوڑنا - (۱) محاورہ) فضل توڑنا - فضل ٹوڑنے کا مجرم کرنا۔
 تالا بڑنا - (۱) محاورہ) فضل لگانا۔
 تالا سنجی - فضل مع کلید (۲) بچوں کے ایک کھیل کا نام۔
 تالا کھلنا - (۱) محاورہ) فضل کھلنا۔
 تالاب - (تا - لاب) (۱) صفت) (۲) پانی کا بڑا حوض - تال۔
 تالفت - (ت - ال) (۱) صفت) (۲) باہم محبت کرنا (۳) دوستی - اُلفت۔
 تالقم - (ت - ال) (۱) صفت) (۲) مذکر) دکھانا - اُلم ہونا۔
 تالو - (تا - لو) (۱) مذکر) (۲) منگنے کے اندر کی چھت (۳) دماغ کے اوپر کی سطح۔
 چند یار (۳) گھوڑے کا ایک عیب۔
 تالو آنا - (۱) محاورہ) تالو میں درم ہو جانا۔
 تالو اٹھانا - (۱) محاورہ) جب بچہ پیدا ہوتا ہے - دانی انگلیوں سے اس کے تالو کو دبا کر درست اور باسوتق کرتی ہے۔
 تالو بگڑنا - (۱) محاورہ) آواز کا تالو سے اٹھی طرح نہ نکلنا۔
 تالو سے زبان نہ لگنا - (۱) محاورہ) چُپ نہ رہنا - برابر باتیں کیے جانا یا غرض نہ رہنا۔
 تالو ٹٹکنا - (۱) محاورہ) مُنہ کی بیماری کے باعث تالو کا اپنے مقام سے نیچے آ جانا۔
 تالی - (تالی - دہ) (۱) صفت) (۲) کچی چھائی (۳) دونوں پھیلوں کے بجانے کی آواز۔
 تالی ایک ہاتھ سے نہیں بچی - (۱) صفت) محبت یا لڑائی ایک طرف سے نہیں ہوتی۔
 تالی دچا جانا - (۱) محاورہ) (۲) ہاتھ پر ہاتھ مار کر آواز لگانا (۳) دسک دینا۔
 تالی پچنا (دینا) (۱) محاورہ) بدنامی ہونا - رسوائی ہونا۔
 تالی بیٹنا - (۱) محاورہ) (۲) ہنسی اُٹانا (۳) نصیحت کرنا (۴) شاباش دینا (۵) تین کرنا - داؤدینا۔
 تالی دونوں ہاتھوں سے بچی ہے - (۱) صفت) لڑائی یا محبت دونوں طرف ہی

تاؤ دیکھیں نہ بھاؤ - (۱- محاورہ) بجز سچے سمجھے کام کرتے ہیں
 تاؤ دینا - (۱- محاورہ) گرم کرنا۔ آگ میں لال کرنا (۲) غصہ دلانا (۳) موٹپوں
 کو مروڑنا۔
 تاؤ کھانا - (۱- محاورہ) (۱) سُرخ ہو جانا (۲) جوش کھانا (۳) جاشنی یا قوم کا میل
 مانا (۴) ایٹھنا۔ بل کھانا (۵) پھلنا۔ زرقیق ہونا۔ (۶) کٹے کا آئچ کھا جانا، (۷) غصہ کھانا
 تاؤ لگنا - (۱- محاورہ) (۱) آئچ لگنا خوب گرم ہونا (۲) زیادہ جل جانا۔
 تاؤ میں آنا - (۱- محاورہ) جوش میں آنا۔ غصے میں بھرنا۔
 تائی - (تائی) (۱) امٹ) باپ کے بڑے بھائی کی بیوی۔
 تائے - (تائے) (ف-۱- مذ) (۱) کپڑا (۲) تہ (۳) کاغذ کا تختہ (۴) طاق -

(بہنیت کی ضد)

تائے تشریف - (ف-۱- مذ) ایک خلعت۔ پورا خلعت۔
 تائید - (تائید) (رع-۱- مذ) (۱) تعویت (۲) حمایت - مدد (۳) طرف داری۔
 رعایت (۴) استحکام دعویٰ کی دستاویز۔ جمع: تائیدات۔
 تائید انبوی - (رع-۱- مذ) امٹ) اللہ تعالیٰ کی مدد۔
 تائید ربانی - (ریزدانی) (رع-۱- مذ) خدا کی مدد۔
 تائید عقلی - (رع-۱- مذ) عینب سے مدد خدا کی مدد۔
 تائید کرنا - مدد کرنا۔ سہارا دینا۔ ساتھ دینا۔ حمایت کرنا۔
 تائید کلام - (رع-۱- مذ) استحقاق پروری۔ بات کی ترجیح۔
 تائید مزید - زیادہ مدد۔ کسی بات کی موافقت جو ایک کے بعد دوسرے کرے۔
 تائیدی - (تائی) (وی) (رع-۱- مذ) (۱) صفت امدادی۔
 تائیدی ہمداد - (رع-۱- مذ) وہ گواہ جو کسی کے بیان کی تائید کرے۔
 تائیر - (تائیر) (۱) ہجرت سے منسوب۔ بڑے حجام کا۔
 تائیل (رع-۱- مذ) وہ مسافر جو تعلقے سے پھرتا ہو اور اس کے ساتھیوں کو ٹھکوں
 نے مار ڈالا ہو۔

تائیں - (تائیں) (قی) تیش۔ خاطر۔ لیے۔

تایا - (تایا) (۱- مذ) تاؤ باب کا بڑا بھائی۔

تایا جانا - (تایا) (جا) (نا) (۱) (۱) گرم کیا جانا۔ جلایا جانا۔ پھلایا جانا۔

(۲) آزمایا جانا۔

تائیس - (تائیس) (۱- مذ) امٹ) خسر کے بڑے بھائی کی بیوی۔

تائیسرا - (تائیس) (را) (۱- مذ) خسر کا بڑا بھائی۔

تائیقہ - (۱- مذ) عربی تعلقہ کا بچھرا ہوا مال و اسباب کی منطی (۲) اسباب
 کی فہرست۔

ت - ب

تب - (۱) پھر (۲) بعد میں۔ بعد ازاں (۳) اس وقت (۴) اس پر۔ اس حالت
 میں (۵) اس لیے۔ اس سبب سے (۶) تو۔
 تب بھی - (۱) پھر بھی۔ تاہم۔ اس پر بھی (۲) اس کے باوجود۔
 تب تک - جب تک۔ اس وقت تک۔

تب تو - پھر تو۔

تب سے - اس وقت سے۔

تب کا لپٹا لپٹا لپٹا اب کا لپٹا دیکھو آئے۔ (مثلاً) پرانی بات
 کو جملنے دیجیے، نئی حالت کو دیکھیے۔

تب لگ جھوٹ نہ لو لیے، جب لگ پار بسا ہے۔ (مثلاً) جہاں
 تک ممکن ہو، جھوٹ نہ لو لیتا چاہیے۔

تب ہی - (بھی) (۱) اسی وقت۔ اسی دم۔ جب ہی فوراً (۲) اس لئے اس لئے

تب ہی تک - صرف اس وقت تک۔

تب ہی تو - اس لیے۔ اس وجہ سے۔

تب ہی سے - اس وقت سے۔

تب - (ف-۱- مذ) (۱) امٹ) تپ۔ بخار۔

تب دروں - (ف-۱- مذ) امٹ) اندرونی گرمی۔ دل کی سوزش۔ عشق۔

تب کہنہ - (ف-۱- مذ) امٹ) پرانا بخار۔

تباؤ - (رع-۱- مذ) سبقت۔ مسابقت (۲) بازی لے جانا (۳) ہم دوڑنا۔

تباؤ دل - (ت-۱- مذ) بدلنا۔ تبدیل کرنا۔ باہمی بدلہ۔

تباؤ دل سزا - (رع-۱- مذ) ایک سزا کا دوسری سزا سے بدل دینا۔

تباؤ دلہ - (ت-۱- مذ) بدلہ۔ عوض۔ معاوضہ (۲) ایک جگہ سے
 دوسری جگہ جانا۔ بدلی۔

تباؤ دلہ خیالات - (رع-۱- مذ) کسی بات کے متعلق دویا زیادہ اشخاص
 کا باہم اظہار خیال۔ صحیح سادہ خیالات)

تبار - (ت-۱- مذ) (۱) خاندان۔ گھرانہ (۲) قوم۔ ذات۔ لوگ۔

(۳) نسل۔ اولاد۔

تبارا - (ت-۱- مذ) (۱) سبارہ۔ تیسری دفعہ (۲) تین دروازوں کا گروہ۔

تبارک - (ت-۱- مذ) (۱) بزرگ۔ عالی۔ بزرگ (۲) مسلمانوں کی

ایک رسم، وجہ کے مینے میں جمعرات یا جمعہ کو سورہ تبارک چالیس مرتبہ

پڑھ کر کر دلی کو بخشنے ہیں اور میدے کی روٹیاں تقسیم کرتے ہیں۔

تبارک الذی - (۱) بزرگ ہے وہ ذات (۲) کلام مجید کا ایک پارہ۔

تبارک اللہ - بزرگ ہے اللہ تعالیٰ (تعبیر کے وقت کہتے ہیں)۔

تبارک کی روٹی - روٹی جو تبارک کے موقع پر تقسیم و خیرات کی جائے۔

تبارکینی - (ت-۱- مذ) (۱) تین روز کی رکھی ہوئی۔ تین روز کی باسی۔

تبارکینی - (ت-۱- مذ) (۱) امٹ) (۱) ایک دوا۔ شلوچون (۲) (عجاز آ)

تبا عیض - (ت-۱- مذ) (۱) امٹ) (۱) ایک دوا۔ شلوچون (۲) (عجاز آ)

تبا کھیر - (ت-۱- مذ) (۱) امٹ) (۱) ایک دوا۔ شلوچون (۲) (عجاز آ)

تباہ - (ت-۱- مذ) (۱) امٹ) (۱) ایک دوا۔ شلوچون (۲) (عجاز آ)

تباہ حال - (ف-۱- مذ) (۱) امٹ) (۱) ایک دوا۔ شلوچون (۲) (عجاز آ)

تباہ کرنا - (۱- محاورہ) (۱) برباد کرنا۔ ویران کرنا۔ (۲) مٹانا۔ مٹانے کرنا۔

تفضول خرچ کرنا (۳) دیوالہ نکالنا۔ مفلس بنا دینا (۴) غرق کرنا۔ ڈبو کرنا (۵)

بگڑنا - ستیا ناس کرنا (۶) کھونا بگڑ کرنا (کبوتروں کی اصطلاح میں)
 تباہ ہونا - (۱) محارہ (۲) برباد ہونا - (۳) لکٹنا - غارت ہونا (۳) صناع ہونا -
 (۴) منس ہونا (۵) ڈوبنا - عرق ہونا (۶) ستیا ناس ہونا - بگڑنا (۷) عاشق ہونا -
 مر گھٹنا (۸) لکھڑا لکھڑا (پتنگ بازی کی اصطلاح)
 تباہی - (ت - باہی) (۱) امٹ (۲) بربادی - خرابی - ویرانی (۳) (اُس) ذلت رسول
 (۴) مصیبت - بلا (۵) لوٹ مار - غارت -
 تباہی آنا - (۱) محارہ (۲) آفت آنا - بلا نازل ہونا -
 تباہی کا مارا (تباہی زدہ) - (۱) محارہ (۲) مصیبت کا مارا - دکھی - آفت زدہ
 خراب و خستہ - تباہ حال - کم بخت -
 تباہین - (ت - باہین) (۱) فرق - تفاوت - اختلاف (۲) جہائی (۳)
 ضد مخالفت (۴) نامطابقت - ناموافقت -
 تبحر - (ت - ح) (۱) کسی علم یا فن میں سمندر کی طرح بے پایاں ہونا -
 تبحر علمی - کسی چیز میں کمال حاصل ہونا -
 تبحر - (ت - ح) (۱) مذہبیت - دعت علمی -
 تبخال - (ت - خ) (۱) تب - خال (ت - خ) (۲) لہ - ف (۱) پھیلا، جو بخار کی گرمی
 سے ہونٹوں پر پھیل آتا ہے -
 تبختر - (ت - ح) (۱) ناز سے پلٹنا - غرور سے پلٹنا (۲) غرور - تکبر -
 فخر - اترا نا -
 تبخیر - (ت - خیر) (۱) امٹ (۲) بہک (۳) بہاب (۴) خفیف سی حرارت -
 وہ بخارات جو کھانا کھانے کے بعد مایع کو چڑھتے اور جسم کو بھی قدرے
 گرمایت ہیں -
 تبدیل - (ت - بدل) (۱) (ت - بدل) (۲) تغیر - بدلنا -
 تبدیل - (ت - بدل) (۱) امٹ (۲) ایک جگہ سے دوسری جگہ کرنا یا مارنا
 تغیر کرنا - پلٹنا (۳) تغیر - فرق - بدل (۴) پلٹ - پھر بھار -
 تبدیل آب و ہوا - (ت - ف) (۱) امٹ (۲) بحال صحت کے لینے ایک جگہ سے
 دوسری جگہ جانا -
 تبدیل ناخاتر - دستاویز وغیرہ میں جعل سے کچھ بدل دینا - جعل سازی -
 تبدیل ہونا - ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا - بدلنا - بدلی ہونا -
 تبدیل ہیئت - (ت - ف) (۱) امٹ (۲) صورت بدلنا - ہیئت بدلنا -
 تبدیل - (ت - دی - لی) (۱) (ت - ف) (۲) امٹ (۱) بدل - ملازم کا ایک جگہ سے
 دوسری جگہ بلا جانا (۲) نوکری پر ایک سپاہی یا سپہ سالار کی جگہ دوسرے
 کا آنا (۳) ایک حالت سے دوسری حالت ہونا (۴) تغیر - تبدیل -
 فرق -
 تبذیر - (ت - ب) (۱) امٹ (۲) فضول خرچی کرنا (۳) پراگندہ کرنا -
 (۴) بیچ بونا (۵) بھید ظاہر کرنا -
 تبذیر - (ت - ب) (۱) مذہب - (۲) ایک قسم کا فولادی آلہ جس سے کڑی
 پیہرے اور درخت کاٹتے ہیں -
 تبرا - (ت - برا) (۱) (ت - ذ) لغت - ہزاری (۲) لعن طعن -
 تبرا (ت - برا) (۱) (ت - ذ) لغت - ہزاری (۲) لعن طعن -
 تبرا (ت - برا) (۱) (ت - ذ) لغت - ہزاری (۲) لعن طعن -

تبرے بازی - (۱) گالیاں دینا - لعن طعن کرنا (۲) پھکڑ بازی -
 تبرائی - (ت - بڑ - نا - ای) (۱) صفت (تبر) کرنے والا - لعن طعن
 کرنے والا -
 تبرج - (ت - بڑ - روج) (۱) مذہبناؤ سنگھار کرنا - آرائش کرنا - اپنے آپ
 کو ستورنا -
 تبرع - (ت - بڑ - روج) (۱) مذہبنا - دینا - کسی کو ذاتی منفعت کی
 امید کے بغیر دینا -
 تبرک - (ت - بڑ - رگ) (۱) (ت - بڑ - رگ) (۲) وہ چیز جس میں برکت ہونے کا اعتقاد
 ہو (۲) تھپ - پرشاد (۳) نیب از فاختہ کی چیز (۴) تھوڑا سا -
 قلیل - جمع : تبرکات -
 تبرک ہو جانا - (۱) محاورہ (۲) کسی چیز کا ذرا ذرا کر کے تقسیم ہو جانا -
 تبرک - (ت - بڑ - رگ) (۱) برکت کے ساتھ - برکت کے طور پر -
 تبرک کا و تہینا - خیر و برکت کے لحاظ سے -
 تبرکات - (ت - بڑ - رگ) (۱) (ت - بڑ - رگ) (۲) بزرگان دین کی چیزیں جو برکت
 کے طور پر رکھی جائیں - بزرگوں کے آثار - تبرکات جمع -
 تبرکوں - (ت - بڑ - رگ) (۱) (ت - بڑ - رگ) (۲) ایک عیب -
 تبرید - (ت - بید) (۱) امٹ (۲) ٹھنڈا کرنا - تروتازہ کرنا (۳) ٹھنڈائی
 (۴) ٹھنڈی دوا - وہ دوا یا مشربت جو مہل کے بعد اس کی حرارت
 کو دور کرنے کے لیے دیتے ہیں -
 تبریق - (ت - امٹ) (۱) تیز دیکھنا (۲) برتنا نا - کسی چیز میں برقی رو دوڑانا -
 تبریر - (ت - امٹ) (۱) بری کرنا (۲) چھوڑنا - برات - صاف کرنا -
 تبسط - (ت - امٹ) (۱) پھیلاؤ - فراخی - کشادگی (۲) پھیلا نا - کھلنا -
 تبتم - (ت - بس - تم) (۱) (ت - امٹ) (۲) مسکراہٹ - ایسی ہنسی جس میں ہونٹ
 نہ کھلیں -
 تبتم (افشاں) پاش - (ت - ف) (۱) صفت (ت - امٹ) (۲) مسکرانے والا مسکراتا ہوا -
 تبتم بوق - (ت - ف) (۱) مذہب کی ہیک -
 تبتم اکل - (ت - ف) (۱) مذہب کی کھلنا -
 تبتم بیٹا - (ت - ف) (۱) مذہب سے شراب نکلنے کی آواز -
 تبصرہ - (ت - ب) (۱) (ت - امٹ) (۲) تنقید - ریویو - نقد و نظر (۳) توضیح -
 جمع : تبصرہ جات -
 تبیح - (ت - بیح) (۱) (ت - امٹ) (۲) پیروی کرنا (۳) پیروی کرنے والا -
 جمع : تبیح - تبیح -
 تبیح تابعین - (ت - بیح) (۱) (ت - امٹ) (۲) پیروی کرنے والا -
 تبیعت - (ت - بیح) (۱) (ت - امٹ) (۲) متابعت - اتباع - پیروی -
 تنقید (۳) نقل (۴) اطاعت - فرمانبرداری -
 تبغیض - (ت - بیغیض) (۱) (ت - امٹ) (۲) دشمنی ڈال دینا - بغض پیدا کرنا -
 (۳) لڑائی کرادینا -
 تبلیق - (ت - بیق) (۱) (ت - امٹ) (۲) طبع کا بگڑا ہوا - کاغذوں کا بندل
 یا مٹھکا -

تیتے توے پر قسم کھانا - (۱- محاورہ) سخت قسم کھانا۔
تتے توے کی لوند - (۲- مقولہ) بہت خرچ میں تھوڑی آمدنی کسی شمار
میں نہیں۔ (۲) چیز کم ہے جلد قسم ہو جائے گی۔
تتے توے کی لوند ہوئی - (۱- محاورہ) ذرا سی آمدنی معلوم بھی نہ ہوئی۔
بڑے خرچ میں تھوڑی آمدنی کسی شمار میں نہیں۔

تتار - (ت - تار) (س - ۱- مذ) (۱) مالش کی دوا - لپ صفادہ - (۲) گرم پانی
کی سینک (۳) گرم پانی سے دھارنا (۴) سوجی ہوئی جگہ پر ٹھنڈا پانی
ڈالنا (۵) تاتار کا محفت۔

تتار ناسرت - تار - نا - (۲) مہل - (۳) گرم کرنا۔
تتال - (ت - تال) (۱) دق - (۲) صوف - (۳) دھوکے باز - بد معاشر - مکار۔
تتالی - (ت - تالی) (۱) دق - (۲) مکاری - دھوکے بازی۔
تتلیج - (ت - تب - لاج - ۱- مذ) (۱) تقلید - (۲) سردی - (۳) نقل - (۴) لیس۔
تتتر - (ت - تتر) (ت - تتر) (۱) صوف - (۲) الگ الگ - جدا جدا منتشر - پرالندہ۔
بے ترتیب - بکھرا ہوا - پریشان۔

تتری - (ت - تری) (ت - تری) (۱) صوف - (۲) تاتاری - تاتار کا رہنے والا۔
تترپی - (ت - تری) (ت - تری) (۱) صوف - (۲) نازنخرے کرنے
والی عورت (۳) ہنایت بخیل عورت (۴) تیز مزاج (۵) جسم جلی - بد قسمت۔
تترپی نے دیا جو تم علی نے کھایا (مثلاً) (۱) ایک بد قسمت شخص دوسرے
نہ جیب جلی - نہ سواد آیا بد قسمت کی مدد کرے۔ تو کچھ نہیں ہوتا۔
(۲) بہت تھوڑا کھانا دیا جائے تو اس وقت بھی کہتے ہیں۔

تتری - (ت - تری) (ت - تری) (۱) صوف - (۲) ایک ہنایت خوبصورت
پر دار لکڑی۔
تتقی - (ت - تق) (ت - تق) (۱) پردہ - نیمہ - سراپردہ۔

تتقی گزرف - (ت - تق) (ت - تق) (۱) گزری ہوئی خاک - اس قدر خاک کہ کچھ نظر نہ آئے۔
تتقی نیلی - (ت - تق) (ت - تق) (۱) آسمان۔

تتک - (ت - تک) (ت - تک) (۱) توتنگ (۲) (۱- مذ) جہاز کا تختہ۔
تتلا - (ت - تلا) (ت - تلا) (۱) جو حصار نہ بول سکے - گفت کرنے والا۔
تتلا نا - (ت - تلا) (ت - تلا) (۱) گفت کرنا۔ صاف نہ بولنا۔ تک تک کر
بات کرنا۔ ہلکانا (۲) ٹ - ڈو جسرہ کی جگہ ت - د بولنا۔

تتبا - (ت - تم - با) (ت - با) (۱) تذکرہ - (۲) جھگڑا - (۳) زبانی تکرار۔
(۴) روک - مخالفت (۵) سازش - جوڑ جوڑ۔ داؤل گات (۵) بغاوت
غدر (۶) دنگا فساد۔

تتعبے لگے ہونا - (۱) محاورہ) گھر کے بھگدون بھگڑوں میں پھنسے ہونا۔
تتعمہ - (ت - تم - عمہ) (ت - عمہ) (۱) بقیہ - بچا ہوا کسی چیز کا آخری حصہ (۲)
غیر - خاتمہ - کتاب کا وہ نامہ حصہ جو اخیر میں لکھا دیتے ہیں (۳)
خط کا ختمیہ (۴) مذاق - بچہ۔ جمع - ختمہ جات۔

تتعمہ بیان تحریر کری - (۱) مذ - تحریر کری بیان کا ختمیہ۔
تتعمہ چالان - (ت - عمہ) (ت - عمہ) (۱) مذ - وہ چالان جو نامکمل چالان کے بعد قیسے کی

تتیش - (ت - پیش) (ت - پیش) (۱) گرمی - حرارت - آفتاب کی تمارت۔
(۲) سوزش - جلن (۳) اضطراب - بے چینی۔

تتیک - (ت - تک) (ت - تک) (۱) امٹ - (۲) چھوٹے کا درد پیش - جلن۔
تتیک رٹ - (ت - تک) (ت - تک) (۱) امٹ - (۲) چھوٹی توپ۔
تتیکچی - (ت - تک) (ت - تک) (۱) مذ - ایک افسر جو مالگذاری کے کام پر
لگایا جاتا تھا۔

تتیکچی - (ت - تک) (ت - تک) (۱) مذ - توپچی - گولنداز - بندوق چلانے والا۔ سپاہی۔
تتیکنا - (ت - تک) (ت - تک) (۱) مہل - (۲) مہل - (۳) مہل - (۴) پک ہونا۔
تتین - (ت - پن) (ت - پن) (۱) مہل - (۲) مہل - (۳) مہل۔

تتینا - (ت - نا) (ت - نا) (۱) گرم ہونا (۲) جلنا۔ دھکا - تمنا (۳) رعب بٹھانا۔
(۴) صاحب نصیب ہونا (۵) دھونی رمانا۔
تتینچہ - (ت - پن - چہ) (ت - پن - چہ) (۱) مذ - پستول (دیکھئے ملچہ)۔
تتینچہ بانڈھنا - (۱) محاورہ) پیچہ کمر میں لگانا۔

تتینچہ بھرنا - (۱) محاورہ) پیچے میں گولی بارود ڈھرنانا۔ پستول بھرنا۔
تتینچہ چلاننا - (۱) محاورہ) پیچے کا گھوڑا دانا۔ پیچہ سر کرنا۔
تتینچہ چھوٹنا - (۱) محاورہ) پیچہ سر ہونا۔

تتینچہ چھوڑنا - (۱) محاورہ) پیچہ چلاننا۔
تتینچہ خالی کرنا - (۱) محاورہ) (۲) پیچے سے گولی باوریا کا توں نکالنا (۳) پیچہ چھلانا۔
تتینچہ (داعنا) سر کرنا - (۱) محاورہ) پیچہ چھلانا۔

تتیرہن - (ت - رہن) (ت - رہن) (۱) ہر دو کے قریب
ایک تیرہ جہاں جو کسی اور سینا ہی جا کر تپا کرتے ہیں۔
تتیرہنے - (ت - رہن) (ت - رہن) (۱) مذ - پٹنے۔

تتیرہ - (ت - رہن) (ت - رہن) (۱) مذ - پٹنے۔
تتیرہ - (ت - رہن) (ت - رہن) (۱) مذ - پٹنے۔

ت - ت

تت - (ت - ۱- ۱- مذ) (۱) روح - جان (۲) لب لباب - ست (۳) سرمایہ - پونجی
راس المال (۴) پھل - نتیجہ (۵) انجام - اخیر (۶) خدا سے تعالے کی
صعرت - ماہیت خدا۔

تتاسا - (ت - تاسا) (ت - تاسا) (۱) صوف - (۲) گرم - (۳) تیز مزاج - تند (۴) بہادر
شجاع (۵) ہوشیلا - سرگرم - پر جوش۔
تتاتاؤ - (ت - ۱- ۱- مذ) (۱) جب تیز گرم کیا جائے تو اس کی ابتدائی گرمی کو تتاتاؤ
کہتے ہیں۔ اس میں روٹی اچھی طرح نہیں پکتی (۲) مجازاً - ذرا - جلد۔

تتتاؤ والا - (ت - ۱- ۱- مذ) (۱) صوف - (۲) تیز مزاج۔
تتتاؤ - (ت - ۱- ۱- مذ) (۱) گرم تو (۲) بات بات پر اڑنے والا۔ لڑاکا
بھگڑالو۔

تتتاؤ کو روا نہ نکلنے کا نہ اگلنے کا - (مثلاً) اس موقع پر کہتے ہیں جب
تتتاؤ نہ پڑے۔
تتتاؤ ہونا - (۱- محاورہ) گرم ہونا۔ غضب ناک ہونا۔ ناراض ہونا۔

تشہیہ - (تث - بن - یر) (ع - ۱ - مذ) (۱) دوگنا - دوگنا کرنا (۲) صیغہ جس میں دو کبھے جائیں (۳) دو نظوں والا -
تثویب - (ع - مٹ) (۱) لوٹنا (۲) بیج کی نمازیں دوسرے صلوات خیر
من التوم کہنا -

تفتیش ختم ہونے پر عدالت میں پیش کیا جائے (تافون)
تعمیر و وصیت نامہ - (ف - ۱ - مذ) دست نامے سے متعلق دستاویز
جس میں وصیت نامے کے مطالب کی توضیح یا اس میں اضافہ یا تبادلہ
کیا جائے -

تعمیم - (تث - بیم) (ع - ۱ - مٹ) پورا کرنا، مکمل کرنا تکمیل - انت -
تعمیلو - (تث - تو - عم - بو) (۱ - مٹ) روک تھام - دم دلاسا -
بچاؤ -

ت - ج

تج - (۱ - ۱ - مٹ) (۱) ایک درخت جس کی پھال خوشبودار ہوتی ہے - دارِ صنی کا
درخت (۲) دارِ صنی (۳) بچنا کا امر (۴) دست برداری - کنار کشی دست کشی
بچ چکنا - (۱ - مص) چھوڑ چکنا - دست بردار ہونا -
بچ دینا (بچنا) (۱ - مص) چھوڑنا - تیاگنا دست بردار ہونا - کنارہ کش
ہونا - بازرہنا -

تجاویز - (ت - جا - وز) (ع - ۱ - مذ) (۱) کشت - باہم جذب کرنا -
یہ ایک دوسرے کو کھینچنا، کشش (۲) (۱) انک (Gravitation)
تجار - (ع - جار) (ع - ۱ - مذ) تاجر کی جمع - سوداگر -
تجارب - (ت - جا - رب) (ع - ۱ - مذ) تجربہ کی جمع -
تجارت - (ت - جا - رت) (ع - ۱ - مٹ) سوداگری - بیوہ - دکان داری -
تجارتی - (ت - جا - رت) (ت - ن) (ف - صغ) تجارت سے متعلق -

تجاری مال - (۱ - مذ) سوداگری کا سامان -
تجاری مارکہ - (۱ - مذ) تجارتی نشان (انگ) (Trade Mark)
تجارتی منڈی - وہ مقام جہاں کسی چیز کی خاص طور پر تجارت ہو -
تجائز - (ع - ۱ - مذ) دلیری - جسارت - جرأت -

تجاوڑ - (ع - ۱ - مذ) حد سے بڑھنا یا گزرنا (۳) بے راہ ہو جانا
(۴) اپنے اختیار سے بڑھ کر کام کرنا (۴) عدول صحیح - خلاف ورزی (۵)
فرق (۶) گستاخی کرنا ہونے کے ساتھ (۶) معاف کرنا - جمع : تجاویزات -
تجاہل - (ت - جا - ہل) (ع - ۱ - مذ) (۱) انجان بنا - ٹالنا (۲) قسم پوشی (۳)
بے پروائی - جمع : تجاہلات -

تجامل عارفانہ - (ع - ۱ - مذ) (۱) جان بوجھ کر انجان بنا (۲) کسی معلوم بات
کو نامعلوم کی طرح بیان کر کے اس کی تیز میں اپنی حیرانی و عدم واقفیت
کا اظہار کرنا - ارادتنا واقفیت ظاہر کرنا -

تجدد - (تث - بد - د) (ع - ۱ - مذ) نیا ہونا - جدت - نیا پن - اختراع -
تجدید - (ع - ۱ - مذ) (ع - ۱ - مٹ) (۱) ایجاد - اختراع (۲) نئے سرے سے کام
شروع کرنا (۳) کاپی لٹ - جمع : تجدیدات -

تجدید بنائے دعوائے - (ع - ۱ - مٹ) بنائے دعوائے کو نئے سرے
سے پیش کرنا -

تجربہ - (ع - ۱ - مذ) (ع - ۱ - مذ) (۱) آزمائش - امتحان - جانچ - پرکھ (۲)
کرنے کا طریقہ - واقفیت (۳) سائنس کامل - سائنس کے اصول کی
آزمائش یا امتحان - جمع : تجربات -
تجربہ حاصل کرنا - (۱ - محاورہ) کسی کام کو کر کے سیکھنا -

تعمیر و تعمیر - (ع - ۱ - مٹ) (۱) چاند کی تاریخ (۲) دن - تاریخ -
تعمیر - (ت - تھا) (۱ - مٹ) (۱) طاقت - قوت - بل - زور (۲) ایقوت
قابلیت (۳) اب - اس طرح کا -

تہتر - تہتر - (ت - تہ - ترا) (ت - تہ - ترا) (ت - تہ - ترا) -
(۱ - مذ) پانی گرم کرنے کا برتن -
تہتی - (ت - تہ - ای) (۱ - مٹ) چھوٹا سا لوٹا جس سے پتے پانی پیتے ہیں -
تہتی پر تین بال ، وہ ناچھیں بن تال - (۱ - مٹ) (۱) لال رنگ کی پھڑ (صغ) (۲) تیز -
جالاک (۳) ذہین - ذکی -

تتمنا کا ناسخ نجانا - (۱ - محاورہ) ستانا - تنگ کرنا - مزہ اچھکانا -
تتمنا مرچ - (۱ - مٹ) (۱) ایک قسم کی چھوٹی سی ہنایت تیز مرچ -
تتمتے پڑنا - (ت - تہ - پڑنا) (۱) رسوائی ہونا - بدنامی ہونا - ذلت ہونا

ت - ط

تث - (۱ - ۱ - مذ) (۱) ساحل - کنارہ (۲) ڈھال - اتار بھگا (۳) اٹنی - کاس -
(۴) کھیت -

تثابا - (تث - با) (ق - صغ) (۱) کمزوری - لاپھاری - بے بسی (۲) مفلسی -
احتیاج -

تثالا - (تث - ثا - لا) (ق - ۱ - مذ) باہر سے کاسر کٹا - ڈنٹھل -
تثی - (تث - ثی - لے) (ق - ۱ - مذ) ٹوکری -
تثی - (تث - ثی - لے) (ق - ۱ - مذ) لقمے -

ت - ث

تثلیث - (تث - لث) (ع - ۱ - مٹ) (۱) تین حصوں میں تقسیم کرنا - (۲)
سیسی مذہب کے مطابق خدا کی وحدانیت کی تین شاخیں یعنی (۱)
باب (۲) بیٹا (۳) روح القدس (۴) مجرموں کی اصطلاح میں تیسرے

گھر کے سارے کا بیٹے گھر کو دیکھنا -
تثیب - (تث - ی - ث) (ع - ۱ - مٹ) سر زلف - ملامت - طعنہ -

تجزیہ کا ر - (ع - ف - صفت) واقع کار - ہوشیار - آزمودہ کار - ماہر -
تجزیہ کاری - (ع - ف - ن - صفت) واقفیت -
تجزیہ گاہ - (ف - مذ) مکان جس میں تائیں تجزیہ کے سبب ہوتے ہیں اور التجزہ
تجزیہ عمل - تجزیہ خانہ -

تجزیاتی نفسیات - (ع - مذ - باقی - لف - سی - یات) (ف - ۱ - صفت)
وہ نفسیات جو تجزیہ پر مبنی ہوں نہ کہ نقل و روایات یا قیاس پر -
تجزیہ - (ت - جز - رُ) (ع - ۱ - صفت) (۱) عربانی (۲) تہنائی - غلوت - گزینی -
ایلا رہنا (۳) شادی نہ کرنا (۴) ترک دنیا - آزادی -

تجزیہ قلب - (ع - صفت) جس میں دو الفاظ تعداد و صفت اور نوعیت
میں ایک جیسے ہوں اگر ترتیب میں مختلف ہوں جیسے رام - مار - محروم - محروم -
تجزیہ مرکب - (ع - ۱ - صفت) جس میں ایک کلمہ صفت لفظ سے بنے ایک
میں ایک مفرد ہو دوسرے میں مرکب جیسے جانا - ایک کلمہ مفرد ہو اور
دوسری جگہ جا اور نا سے مرکب یعنی (مت - جا)

تجزیہ مدح - (ع - ۱ - صفت) (۱) برہنگی - عربانی (۲) تہنائی - غلوت (۳) ایک
چیز کو دوسری چیز سے جدا کرنا (۴) علم بیان کی ایک صفت - جس میں نوادہ
کو ذکر کے صرف ایک سنی سے عرض رکھتے ہیں - جمع - تجزیہات -

تجزیہ ناقص - (ع - ۱ - صفت) جس میں تعداد و حرف میں اختلاف ہو
جیسے کوہ - شکوہ -

تجزیہ جوری - (ت - جز - ری) (ع - ۱ - صفت) لوہے کی الماری جس میں زرد مال اور قیمتی
چیزیں حفاظت کے لیے رکھی جائیں -

تجزیہ فن (آرٹ) - (ع - مذ) سنگ تراشی اور مصوری کا وہ انداز
جس میں فنکار اقلیدسی اشکال اور علامات کے ذریعے اظہار خیال
کرتا ہے - (انگ) (Abstract Art)

تجزیہ جویہ - (ع - ۱ - صفت) (۱) حروف کو ان کے مخارج سے ادا کر کے
پڑھنا (۲) قرآن شریف کو پڑھنے کا فن -

تجزیہ جویہ - (ع - ۱ - صفت) (۱) تقسیم کرنا (۲) تحلیل کرنا - کسی مرکب کے
مخامض ترتیبی جدا جدا کرنا - جمع - تجزیہات -

تجزیہ جویہ - (ع - ۱ - صفت) (۱) تقسیم کرنا (۲) تحلیل کرنا - کسی مرکب کے
مخامض ترتیبی جدا جدا کرنا - جمع - تجزیہات -

تجزیہ گاہ - (ع - مذ) وہ جگہ جہاں مرکبات کے تجزیہ و تحلیل کا کام کیا جائے
تجزیہ - (ت - جز - س) (ع - ۱ - صفت) (۱) تلاش - تجزیہ - دریا -

تجزیہ گاہ - (ع - مذ) وہ جگہ جہاں مرکبات کے تجزیہ و تحلیل کا کام کیا جائے
تجزیہ - (ت - جز - س) (ع - ۱ - صفت) (۱) تلاش - تجزیہ - دریا -

تجزیہ گاہ - (ع - مذ) وہ جگہ جہاں مرکبات کے تجزیہ و تحلیل کا کام کیا جائے
تجزیہ - (ت - جز - س) (ع - ۱ - صفت) (۱) تلاش - تجزیہ - دریا -

تجزیہ گاہ - (ع - مذ) وہ جگہ جہاں مرکبات کے تجزیہ و تحلیل کا کام کیا جائے
تجزیہ - (ت - جز - س) (ع - ۱ - صفت) (۱) تلاش - تجزیہ - دریا -

تجزیہ گاہ - (ع - مذ) وہ جگہ جہاں مرکبات کے تجزیہ و تحلیل کا کام کیا جائے
تجزیہ - (ت - جز - س) (ع - ۱ - صفت) (۱) تلاش - تجزیہ - دریا -

تجزیہ گاہ - (ع - مذ) وہ جگہ جہاں مرکبات کے تجزیہ و تحلیل کا کام کیا جائے
تجزیہ - (ت - جز - س) (ع - ۱ - صفت) (۱) تلاش - تجزیہ - دریا -

تجزیہ گاہ - (ع - مذ) وہ جگہ جہاں مرکبات کے تجزیہ و تحلیل کا کام کیا جائے
تجزیہ - (ت - جز - س) (ع - ۱ - صفت) (۱) تلاش - تجزیہ - دریا -

تجزیہ گاہ - (ع - مذ) وہ جگہ جہاں مرکبات کے تجزیہ و تحلیل کا کام کیا جائے
تجزیہ - (ت - جز - س) (ع - ۱ - صفت) (۱) تلاش - تجزیہ - دریا -

تجزیہ گاہ - (ع - مذ) وہ جگہ جہاں مرکبات کے تجزیہ و تحلیل کا کام کیا جائے
تجزیہ - (ت - جز - س) (ع - ۱ - صفت) (۱) تلاش - تجزیہ - دریا -

تجزیہ گاہ - (ع - مذ) وہ جگہ جہاں مرکبات کے تجزیہ و تحلیل کا کام کیا جائے
تجزیہ - (ت - جز - س) (ع - ۱ - صفت) (۱) تلاش - تجزیہ - دریا -

تجزیہ گاہ - (ع - مذ) وہ جگہ جہاں مرکبات کے تجزیہ و تحلیل کا کام کیا جائے
تجزیہ - (ت - جز - س) (ع - ۱ - صفت) (۱) تلاش - تجزیہ - دریا -

تجزیہ گاہ - (ع - مذ) وہ جگہ جہاں مرکبات کے تجزیہ و تحلیل کا کام کیا جائے
تجزیہ - (ت - جز - س) (ع - ۱ - صفت) (۱) تلاش - تجزیہ - دریا -

تجزیہ گاہ - (ع - مذ) وہ جگہ جہاں مرکبات کے تجزیہ و تحلیل کا کام کیا جائے
تجزیہ - (ت - جز - س) (ع - ۱ - صفت) (۱) تلاش - تجزیہ - دریا -

تجزیہ گاہ - (ع - مذ) وہ جگہ جہاں مرکبات کے تجزیہ و تحلیل کا کام کیا جائے
تجزیہ - (ت - جز - س) (ع - ۱ - صفت) (۱) تلاش - تجزیہ - دریا -

تجزیہ گاہ - (ع - مذ) وہ جگہ جہاں مرکبات کے تجزیہ و تحلیل کا کام کیا جائے
تجزیہ - (ت - جز - س) (ع - ۱ - صفت) (۱) تلاش - تجزیہ - دریا -

تجزیہ گاہ - (ع - مذ) وہ جگہ جہاں مرکبات کے تجزیہ و تحلیل کا کام کیا جائے
تجزیہ - (ت - جز - س) (ع - ۱ - صفت) (۱) تلاش - تجزیہ - دریا -

تجزیہ گاہ - (ع - مذ) وہ جگہ جہاں مرکبات کے تجزیہ و تحلیل کا کام کیا جائے
تجزیہ - (ت - جز - س) (ع - ۱ - صفت) (۱) تلاش - تجزیہ - دریا -

تجزیہ گاہ - (ع - مذ) وہ جگہ جہاں مرکبات کے تجزیہ و تحلیل کا کام کیا جائے
تجزیہ - (ت - جز - س) (ع - ۱ - صفت) (۱) تلاش - تجزیہ - دریا -

تجزیہ گاہ - (ع - مذ) وہ جگہ جہاں مرکبات کے تجزیہ و تحلیل کا کام کیا جائے
تجزیہ - (ت - جز - س) (ع - ۱ - صفت) (۱) تلاش - تجزیہ - دریا -

تجزیہ گاہ - (ع - مذ) وہ جگہ جہاں مرکبات کے تجزیہ و تحلیل کا کام کیا جائے
تجزیہ - (ت - جز - س) (ع - ۱ - صفت) (۱) تلاش - تجزیہ - دریا -

ترجم کے بغیر شعر ٹھننا۔
 تحت تصرف - تحت حکومت - تحت فرمان - (ح. ف. ص)
 (۱) زیر حکم - ماتحت (۲) حکومت - تالیف داری -
 تحت و تصرف میں لانا - (۱) محاورہ، قبضہ کرنا اور خرچ کرنا صرف
 کرنا - کام میں لانا -
 تحتانی - (ح. نا - نی) (ح. صف) (۱) نیچے والا یا نیچے والی (۲) وہ حرف
 جس کے نیچے لفظ ہوں -
 تحتجر - (ت. ج - ج) (ح. ۱ - ا - مذ) (۱) پتھر کی طرح سخت ہونا (۲) سختی -
 درشتی - کڑھائی - سنگ دلی -
 تجدیث - (ح. دیش) (ح. ۱ - امث) (۱) بات کسنا (۲) خبر کرنا -
 تجدیدی - (ت. حد - دی) (ح. ۱ - امث) (۱) لڑائی کرنا - لاکارنا -
 تجدید - (ح. دید) (ح. ۱ - امث) (۱) عذاب دھنا (۲) مجبوری - معذوری -
 پابندی -
 تجدیر - (ح. ذیر) (ح. ۱ - امث) (۱) ڈرانا - خوف دلانا (۲) ہوشیار کرنا -
 خبردار کرنا - جمع : تجدیرات -
 تحریک - (ت. حر - حرک) (ح. ۱ - مذ) (۱) ہلنا حرکت (۲) حرکت دینا -
 جمع : تحریکات -

تحریری - (ت. حرری) (ح. ۱ - امث) (۱) بہترین کا انتخاب کرنا (۲) قلم کی
 سمت معلوم نہ ہونے پر اپنے خیال سے کسی سمت کو قبضہ جان کر
 اُدھر منہ کرنا -
 تحریر - (ح. یر) (ح. ۱ - امث) (۱) نوشت - لکھنا (۲) عبارت - مضمون
 (۳) خط - رقم - خط و کتابت (۴) دستاویز نوشتہ (۵) لکھی لکیر یا لکھا
 نقش کھینچنا (۶) لکیر - خط جو موٹے قلم سے کھینچا جائے (۷) لکھنے کا
 ڈھنگ مضمون نگاری کا انداز (۸) تصنیف - تالیف (۹) آزاد کرنا -
 رہا کرنا - چھوڑ دینا - جمع : تحریرات -

تحریر برائے تحریری - (ح. ف. ص) (ح. ۱ - امث) (ح. ف. ص) مترجم اور مضمون خواہ
 کے درمیان اس مطلب کا اقترا نامہ کہ متحرک الذکر یا دعویٰ مطوی رکھ کر مضمون لکھ
 کہ اس کی رائے کے مطابق کاروبار جاری رکھنے کی اجازت دے -
 تحریر برین السطور - (ح. ف. ص) (ح. ۱ - امث) (ح. ف. ص) سطور کے درمیان کی عبارت -
 (۲) وہ مہنوم جو عبارت میں مخفی ہو یعنی بظاہر کچھ اور معنی ہوں اور
 اصل لکھ اور -

تحریر بر ظہری - (ح. ف. ص) (ح. ۱ - امث) (ح. ف. ص) وہ عبارت جو کسی کاغذ کی پشت پر
 لکھ دیتے ہیں -
 تحریر کرنا - لکھنا - رقم کرنا - قلمبند -

تحریری - (ح. یری) (ح. ف. ص) (ح. ف. ص) لکھا ہوا - رقم کیا ہوا -
 تحریری حکم - فرمان - (ح. ف. ص) (ح. ۱ - امث) (ح. ف. ص) وہ حکم جو لکھ کر دیا جاتا ہے -
 تحریریں - (ح. یریں) (ح. ۱ - امث) (ح. ۱) لالچ دینا - حرص دلانا - (۲) ترتیب
 بہ کا دا - جمع : تحریریات -

تحریرت - (ح. یرت) (ح. ۱ - امث) (ح. ۱) بدل دینا - تحریر میں اصل الفاظ
 بدل کر لکھ اور لکھ دینا (۲) تبدیل کر کے میں (۱) اصل مضمون سے مختلف

تجھ سے تو مجھے ضرور میں بھی بانی نہ رکھواؤں میں کسی سے متغیر گراہ
 کے اظہار کے لئے کہتے ہیں کہ ہم تجھ سے پاخانے میں لوٹا رکھونا بھی
 پسند نہیں کرتے۔
 تجھ کو پرانی کیا پڑی اپنی بغیر تو - (شکل) تو دردمروں کے کام میں کیوں
 طاقت اڑاتا ہے۔ اپنے کام سے کام رکھ -
 تجھ مجھ - (۱ - مذ) ہر کوئی - اپنا بیگانا - ہر کس دناکس -
 تجھے - (ت. جسے) (ح. ۱ - مذ) (ح. ۱) تجھ کو -
 تجھے کیا - تو کیوں ذلیل دیتا ہے -
 تجھے گہری گور میں توپوں - (بددعا) تو مر جائے - دن ہو جائے -
 تجھیز - (ح. یریز) (ح. ۱ - امث) (۱) تیار کرنا - مرتب کرنا - آراستہ کرنا (۲)
 تیار کرنا - (ح. یریز) (ح. ۱ - امث) (ح. ۱) تیار کرنے کے لیے تیار کرنا -
 تجھیز و مخین کرنا - (ح. ۱ - امث) (ح. ۱) مڑے کے کمن دفن کا انتظام کرنا -
 مڑے کی آخری رسومات ادا کرنا - گور گھاس کرنا -
 تجھیل - (ح. یریل) (ح. ۱ - امث) (ح. ۱) نادان بنانا یا کہنا -

ت - ج

تجا - (ح. جا) (ح. ۱ - مذ) تجا -
 تجانا - (ت. جا - نا) (ح. ۱ - امث) (۱) آگ پر رکھنا - سیکننا - گرم کرنا (۲) بھوننا
 بھلنا (۳) بھگانا - تانا -
 تجنا - (ح. نا) (ح. ۱ - امث) (۱) گرم ہونا (۲) بھگانا - تانا -
 تجھ - (ح. صف) (ح. ۱) خالی کھوکھلا (۲) ادنیٰ بھگا (۳) تھیر - کینہ -

ت - ح

تجارح - (ت. جا - ح) (ح. ۱ - امث) (ح. ۱) مزاج داروں میں سے ایک یا دو کا
 مال مندرگہ میں سے کچھ لے کر سارے مال سے دست بردار ہوجانا -
 تحائف - (ت. ح. ص) (ح. ۱ - امث) (ح. ۱) تحفہ کی جمع (۱) ہدیے - نذرانے -
 سوفا میں (۲) نادر چیزیں - عمدہ اشیاء -
 تحت مزع - (ح. ۱ - مذ) (ح. ۱) نیچے کا حصہ (۲) گہرائی (۳) [ح. قبضہ - اختیار - قابو
 (۴) (ح. صف) نیچے - تلے -

تحت الارض - (ح. ص) (ح. ۱) زمین کے نیچے (۲) زمین کے نیچے کا حصہ
 تحت الشری - (ح. ۱ - مذ) (ح. ۱) زمین کا سب سے نیچے کا طبقہ - پائال
 تحت الشعاع - (ح. مذ) قریب ہونے کے آخری دو یا تین دن جب
 ماذ سورج کے قریب ہونے کے باعث تاریک ہو کر سورج کی
 شعاع کے نیچے آجاتا ہے اور نظر نہیں آتا - یہ دن منحوس سمجھے
 جاتے ہیں -

تحت الشعور - (ح. مذ) نفس کا وہ طبقہ جس میں نفسی عمل واقع ہوتا
 ہے اور توہ اور شہ سے باہر ہوتا ہے -
 تحت اللفظ - تحت لفظی - (ح. ص) (ح. ۱) لفظی ترجمہ (۳)

کرنا (۲) قلم کو طبرہا قاطع لگانا۔

تحریک - (ر-ج) (ریک) (ر-ع) (مٹ) (۱) حرکت دینا۔ (۲) لانا (۲) جنبش (۳) متحرک۔ (۴) جلسہ جنائی کسی بات کو شروع کرنا (۴) اشتغال - ترغیب (۵) نزلہ کی شکایت (۶) ہوا کا پھلنا۔ (انگ) (Movement) جمع : تحریکات۔

تحریک اعتماد - (ر-ع) (مٹ) کسی پارلیمانی ادارے کی طرف سے حکومت کی حکومت عمل کی تائید۔ اعتماد کا دوٹ۔
تحریک التوا - (ر-ع) (مٹ) مجلس قانون ساز کے کسی زیر بحث مسئلے کے متعلق کسی رکن کی طرف سے احتجاجاً یہ تحریک کہ مجلس کے اجلاس کو مینڈت کے لئے ملتوی کیا جائے۔
تحریم - (ر-ج) (ریم) (مٹ) (۱) حرام کرنا۔ (۲) مانع کرنا (۲) عزت کرنا۔ (۳) نیت باندھ کر پہلی دفعہ نماز میں اللہ اکبر کہنا۔
جمع : تحریمات۔

تحریم - (ر-ع) (مٹ) نماز میں نیت باندھتے ہوئے پہلی تکبیر (۲) احرام کا لباس پہننا۔

تحریر - (ر-ع) (۱) اندر رنجیدگی - ٹلگنی۔

تحریر - (ر-ج) (ر-ع) (مٹ) حسرت - غم - رنج - افسوس۔
تحریر - (ر-ج) (مٹ) (۱) دیکھتے ہیں نہیں۔

تحریر - (ر-ج) (مٹ) (۱) تعریف - آفرین - مرجا۔
تحریر ناشناس - (ر-ع) (مٹ) (۱) ناواقف کی داد و - ایسے شخص کی طرف سے شاباش جسے کچھ واقفیت نہ ہو۔

تحریر - (ر-ع) (مٹ) (۱) جاہ و حشم - رعب داب۔
تحریر - (ر-ج) (ر-ع) (مٹ) (۱) حاشیہ لکھنا۔ حاشیہ پڑھانا۔

تحریر - (ر-ع) (مٹ) (۱) قطعہ بند کرنا۔ مستحکم کرنا۔
تحریر - (ر-ج) (مٹ) (۱) حاصل کرنا۔ وصول کرنا (۲) جمع کرنا۔

تحریر - (مٹ) (۳) سیکھنا (۴) خراج محصول۔ مال گزار (۵) یافتہ (۶) محصول لینا۔
تحریر - (مٹ) (۹) تحصیل دار کی تحصیل دار کا علاقہ (۹) تحصیل دار کی پھیری۔

تحریر - (مٹ) (۹) تحصیل دار کی پھیری کی عمارت۔ جمع : تحصیلات۔
تحریر حاصل - (۱) موجود چیز کی تلاش (۲) بے سود بات۔ بے فائدہ لگے دو۔

تحریر حاصل - (مٹ) (۱) ایک فسر جس کا کام مال گزار (۲) وصول کرنا ہوتا ہے۔
تحریر علم - (ر-ع) (مٹ) علم حاصل کرنا۔

تحریر کرنا - (مٹ) (۱) حاصل کرنا۔ وصول کرنا (۲) جمع کرنا۔
تحریر کرنا - (مٹ) (۱) حاصل کرنا۔ وصول کرنا۔

تحریر کرنا - (ر-ج) (مٹ) (۱) حاصل کرنا۔ وصول کرنا۔
تحریر کرنا - (ر-ج) (مٹ) (۱) حاصل کرنا۔ وصول کرنا۔

تحریر کرنا - (ر-ج) (مٹ) (۱) حاصل کرنا۔ وصول کرنا۔
تحریر کرنا - (ر-ج) (مٹ) (۱) حاصل کرنا۔ وصول کرنا۔

تحریر کرنا - (ر-ج) (مٹ) (۱) حاصل کرنا۔ وصول کرنا۔
تحریر کرنا - (ر-ج) (مٹ) (۱) حاصل کرنا۔ وصول کرنا۔

تحریر کرنا - (ر-ج) (مٹ) (۱) حاصل کرنا۔ وصول کرنا۔
تحریر کرنا - (ر-ج) (مٹ) (۱) حاصل کرنا۔ وصول کرنا۔

تحفہ محقر - (ر-ع) (مٹ) (۱) صفت - ناقص - ناپسندیدہ۔
تحفہ معجون - (ر-ع) (مٹ) (۱) ذرا کھا آدمی عجیب شخص (طنز) نقل محل - مسخرہ۔
تحقیق - (ر-ع) (مٹ) (۱) صدیق - یقین - سالی - اصلیت ثابت کرنا۔
تحقیر - (ر-ج) (مٹ) (۱) حقیر - بھنا (۲) لغزت - سخارت - بے قدری - ذلت - بے حرمتی۔

تحقیر عدالت - عدالت کی توہین۔ عدالت میں کوئی ایسی بات کرنا جس سے عدالت کے رعب و داب میں فرق آسکے۔

تحقیق - (ر-ج) (مٹ) (۱) اصلیت معلوم کرنا۔ دریافت کرنا۔
تحقیق - (ر-ج) (مٹ) (۱) اصلیت معلوم کرنا۔ دریافت کرنا۔

تحقیق - (ر-ج) (مٹ) (۱) اصلیت معلوم کرنا۔ دریافت کرنا۔
تحقیق - (ر-ج) (مٹ) (۱) اصلیت معلوم کرنا۔ دریافت کرنا۔

تحقیق کرنا - دریافت کرنا۔ حقیقت معلوم کرنا۔ کھوج لگانا۔
تحقیقات - (ر-ج) (مٹ) (۱) جانچ پڑتال۔ تحقیق کی جمع۔

تحقیقات - (ر-ج) (مٹ) (۱) جانچ پڑتال۔ تحقیق کی جمع۔
تحقیقات - (ر-ج) (مٹ) (۱) جانچ پڑتال۔ تحقیق کی جمع۔

تحقیقات - (ر-ج) (مٹ) (۱) جانچ پڑتال۔ تحقیق کی جمع۔
تحقیقات - (ر-ج) (مٹ) (۱) جانچ پڑتال۔ تحقیق کی جمع۔

تحقیقات - (ر-ج) (مٹ) (۱) جانچ پڑتال۔ تحقیق کی جمع۔
تحقیقات - (ر-ج) (مٹ) (۱) جانچ پڑتال۔ تحقیق کی جمع۔

تحقیقات - (ر-ج) (مٹ) (۱) جانچ پڑتال۔ تحقیق کی جمع۔
تحقیقات - (ر-ج) (مٹ) (۱) جانچ پڑتال۔ تحقیق کی جمع۔

تحقیقات - (ر-ج) (مٹ) (۱) جانچ پڑتال۔ تحقیق کی جمع۔
تحقیقات - (ر-ج) (مٹ) (۱) جانچ پڑتال۔ تحقیق کی جمع۔

تحقیقات - (ر-ج) (مٹ) (۱) جانچ پڑتال۔ تحقیق کی جمع۔
تحقیقات - (ر-ج) (مٹ) (۱) جانچ پڑتال۔ تحقیق کی جمع۔

تحقیقات - (ر-ج) (مٹ) (۱) جانچ پڑتال۔ تحقیق کی جمع۔
تحقیقات - (ر-ج) (مٹ) (۱) جانچ پڑتال۔ تحقیق کی جمع۔

تحقیقات - (ر-ج) (مٹ) (۱) جانچ پڑتال۔ تحقیق کی جمع۔
تحقیقات - (ر-ج) (مٹ) (۱) جانچ پڑتال۔ تحقیق کی جمع۔

تحقیقات - (ر-ج) (مٹ) (۱) جانچ پڑتال۔ تحقیق کی جمع۔
تحقیقات - (ر-ج) (مٹ) (۱) جانچ پڑتال۔ تحقیق کی جمع۔

تحقیقات - (ر-ج) (مٹ) (۱) جانچ پڑتال۔ تحقیق کی جمع۔
تحقیقات - (ر-ج) (مٹ) (۱) جانچ پڑتال۔ تحقیق کی جمع۔

تحقیقات - (ر-ج) (مٹ) (۱) جانچ پڑتال۔ تحقیق کی جمع۔
تحقیقات - (ر-ج) (مٹ) (۱) جانچ پڑتال۔ تحقیق کی جمع۔

تحقیقات - (ر-ج) (مٹ) (۱) جانچ پڑتال۔ تحقیق کی جمع۔
تحقیقات - (ر-ج) (مٹ) (۱) جانچ پڑتال۔ تحقیق کی جمع۔

تحقیقات - (ر-ج) (مٹ) (۱) جانچ پڑتال۔ تحقیق کی جمع۔
تحقیقات - (ر-ج) (مٹ) (۱) جانچ پڑتال۔ تحقیق کی جمع۔

تحقیقات - (ر-ج) (مٹ) (۱) جانچ پڑتال۔ تحقیق کی جمع۔
تحقیقات - (ر-ج) (مٹ) (۱) جانچ پڑتال۔ تحقیق کی جمع۔

بدل - تجدید - نیا کرنا (۳) سپردگی - حوالگی - قبضہ - امانت (۴) جمع - مال گزاری
 کاروبار (۵) نقدی - مال - دھن - پونجی (۶) ایک قسم کی رقم کو دوسری قسم
 کی رقم میں لے جانا - جیسے آنے کے روپے (۷) کسی سے لے کر ایک بڑے
 سے دوسرے بڑے میں آنا - جمع - تحولات -
 تحویل امانتی - (ج-۱) امٹ) وہ مال جو امانت کے طور پر رکھوایا جائے -
 تحویل تصرف - (ج-۱) امٹ) امانت میں خیانت -
 تحویلدار - (ج-۱) ف-۱) مذ) خزانچی - امین - عیم - روکڑیا - جس کے پاس
 رقم رہے -
 تحویل وصولی - (ج-۱) امٹ) چھوٹی رقم کو بڑی رقم میں تبدیل کرنا -
 تحویل نروزی - (ج-۱) امٹ) بڑی رقم کو چھوٹی رقم میں تبدیل کرنا -
 جیسے روپوں کے پیسے بنانا -
 تحویل میں دینا - (ج-۱) امٹ) کسی کے سپرد کرنا - امانت رکھنا -
 تحویل میں لینا - (ج-۱) امٹ) قبضے میں لینا -
 تحیات - (ت-جی-۱) بات - (ج-۱) امٹ) تحیت کی جمع -
 تحیث - (ت-جی-۱) بیت - (ت-جی-۱) بیت - (ج-۱) امٹ) (۱) سلام کرنا -
 (۲) سلام، تیلمات - آداب (۲) دعا، برکت - جمع تحیات -
 تحیث المسجد - (ج-۱) امٹ) مسجد میں جا کر سب سے پہلے دو رکعت نماز
 نفل ادا کرنا -
 تحیثہ الوضوء - (ج-۱) امٹ) وضو کے بعد دو رکعت نماز نفل پڑھنا -
 تحیرات - (ت-جی-۱) (ج-۱) امٹ) (۱) حیرانی - تعجب - حیرت - (۲) اچھٹا (۲) حیران
 ہونا - گھبرانا - پریشان ہونا - جمع تحیرات -
 تحیز - (ج-۱) امٹ) محدود ہونا (۲) سانسپ کا کنڈلی مار کر بیٹھنا (۳) تجدید -

تخت پر بیٹھنا - (۱) محاورہ) بادشاہ بنانا - تخت نشین کرنا - برسر حکومت کرنا -
 تخت پر بیٹھنا - (۱) محاورہ) تخت نشین ہونا - بادشاہ ہونا -
 تخت پوش - (ف-۱) مذ) تخت پر ڈالنے کی چادر تخت پر بچھانے کا فرش -
 تخت چڑھنا - (۱) محاورہ) (۱) چارپائی پر چڑھنا - سونا - آرام کرنا - پلنگ
 پر لیٹنا (۲) شادی ہونا -
 تخت چھوڑنا - (۱) محاورہ) بادشاہی ترک کرنا - سلطنت چھوڑنا -
 تخت رواں - (ف-۱) مذ) (۱) ہوادار - وہ تخت جس پر بادشاہ سوار
 ہو کر نکلتا تھا (۲) اڑن کھٹولا (۳) وہ کاغذی گل بوٹوں کا باغ، جو رات
 کے ساتھ بطور آرائش لے جایا جاتا ہے (۴) وہ تخت جس پر شاہ دیوں میں
 ہشتابی بستی یا طوائفیں ناچتی ہوتی نکلتی تھیں - تخت گدوں پر یا آدیوں
 کے موڑوں پر ہوتے تھے (۵) بے ڈنڈوں والی بالکی - جس پر امیر سوار
 ہوتے تھے -
 تخت (سیمال) سیلحانی - (۱) وہ تخت جس پر حضرت سلیمان بیٹھ کر آڑا
 کرتے تھے (۲) ایک بہار -
 تخت سے اتارنا - (۱) محاورہ) (۱) بادشاہی سے ہٹا دینا (۲) طلاق
 دے دینا - زوجیت سے نکال دینا -
 تخت طاؤس - (ف-۱) مذ) شاہجہان بادشاہ کا چھ کھڑ روپے کی
 لاگت سے بنوایا ہوا تخت - جسے لافٹھ میں نادر شاہ ہندوستان سے
 لوٹ میں ایران لے گیا تھا - اس تخت پر ایک مرصع مور پڑ پھیلائے
 کھڑ تھا - جن کا سایہ بادشاہ کے سر پر ہوتا تھا -
 تخت عاج - (ف-۱) مذ) (۱) بائیس دانٹ کا تخت (۲) کنایتہ دن -
 (۳) محبوب کی ساقی بولیں -
 تخت کا تختہ ہونا - (۱) محاورہ) (۱) بادشاہی کا جانا رہنا (۲) کچھ نہ رہنا -
 تخت کی رات - (ف-۱) امٹ) بیاہ کی رات - شب زفاف -
 تخت کی لال کھوت - (ج-۱) امٹ) (۱) شادی کا سرخ جوڑا - جو دہن
 کو نکالنے کے روز بنایا جاتا ہے -
 تخت کاہ - (ف-۱) امٹ) دارالخلافہ - دارالسلطنت - وہ جگہ جہاں
 بادشاہ رہے -
 تخت نشین - (ف-۱) صفت) تخت پر بیٹھنے والا - بادشاہ -
 تخت نشینان خاک - (ف-۱) صفت) خاک پر بیٹھنے والے (۲) انکار -
 تخت نشینی - (ف-۱) امٹ) راج گدی پر جلوس کرنا - تخت سلطنت پر بیٹھنا -
 تخت لے پاؤں جوئے - (۱) محاورہ) تخت پر بیٹھا -
 تخت یا تختہ - (مطل) کامیابی یا موت - شاہی تخت یا سر کے غسل کا تختہ -
 تختہ - (ج-۱) (ت-۱) (ف-۱) مذ) (۱) پٹا - کھڑی کا سطح کھڑا (۲) لوح تختی (۳)
 کاغذ کا تاڑ - (۴) جہاز کی کھڑی کا ہر کھڑا - جہاز کا فرش (۵) وہ کھڑی کا پٹا
 جس پر پتھر رکھ کر چھپاتے ہیں (۶) چوکی - مینہ - بیج - کسی تپائی (۷) زمین یا
 باغ کا کھڑا (۸) بورڈ - ایشیا رکھنے کے کاغذی کا کھڑا (۹) چمن - یکبارہ -
 کیفیت (۱۰) تابلوت - ادھی (۱۱) چھوڑنا (۱۲) وہ کاغذ یا کھڑا جس پر سطرچ
 کھینچتے ہیں (۱۳) گلداریل - بل تختہ (۱۴) وہ کھڑی کا کھڑا جس پر بچوں
 کو کھاتے ہیں - بورڈ (۱۵) وہ کھڑی کا پٹا جس پر مڑے کو ہلاتے ہیں

ت-خ

تخاطب - (ج-۱) مذ) سامنے ہو کر باتیں کرنا - مخاطب ہونا (۲) مخاطب
 تخالف - (ت-۱) مخالف (ج-۱) مذ) (۱) باہم مخالف ہونا (۲) مخالفت -
 تنازعہ - خصومت - دشمنی - لاگ - برسر -
 تخت - (ف-۱) مذ) (۱) بادشاہ کے بیٹھنے کی چوکی - گدی - مسند - سنگھاس
 (۲) بڑی چوکی - چوکی تخت (۳) سلطنت - بادشاہی -
 تخت اکہنوسی - (ف-۱) (۱) آہوس کا بنا ہوا تخت (۲) کنایتہ رات -
 تخت آراستہ ہونا - (۱) محاورہ) بادشاہ کے بیٹھنے کے لئے تخت کا لگایا
 یا سامان -
 تخت اڑنا - (۱) محاورہ) پروں کا تخت نچے آنا -
 تخت الٹنا - (۱) محاورہ) انقلاب برپا کرنا - سلطنت درہم برہم کرنا -
 (۲) مصیبت آنا -
 تخت بخت - (۱) دعا (۲) راج سہاگ - سہاگ بھاگ - عیش و آرام -
 خوش نصیبی - اقبال مندی - شوہر اور اولاد -

تاج (۱۶) دھولی کا پتلا اور صونے کا ٹیڑھا۔
 تاجتہ العنا (۱۱) محاورہ) آباد جنگ کا دیران و برباد ہونا۔ شہر اُڑنا۔ تباہی۔
 تختہ اول (ف - ع - مذ) (۱) بچوں کے لکھنے کی تختی (۲) لوح محفوظ۔
 تختہ بلور (ف - ا - مذ) (استعارہ) پرٹ - شکم۔
 تختہ بند (ف - صفت) (۱) محبوس - قید کیا ہوا۔ قیدی (۲) قید۔ جس
 (۲) وہ لکڑی کا پتلا ٹکڑا اور پٹی جو ٹوٹے ہوئے عضو پر باندھتے ہیں۔
 تختہ بندی (ف - ا - مذ) (۱) لکڑی کے تختوں کا فرش یا دیوار۔ خاتم
 بندی (۲) چمن بندی۔ پھولوں کے تختوں کا قرینے سے بنا ہونا۔
 تختہ ملی (ف - ا - مذ) وہ ٹیل جو تیلے کی خندق پر بناتے ہیں کہ اسے
 جب چاہیں اپنی طرف کھینچ لیں۔ کل دار پل۔
 تختہ ٹھیلونا (۱) - محاورہ) کیاری میں پھولوں کا بکھرت نکلنا۔ کیاری
 کا پھولوں سے بھرا ہونا۔
 تختہ تابوت (ف - ا - مذ) وہ تختہ جس پر مردے کو لیجاتے ہیں اسی
 تختہ تابوت پر ملانا (۱ - محاورہ) قتل کر دینا۔ مار ڈالنا۔
 تختہ (منہ) مشق (ف - ا - مذ) (۱) وہ تختی جس پر لڑکے مشق کرتے
 ہیں۔ لوح (۲) وہ سیاہ تختہ جس پر لکھ کر طالب علموں کو سمجھاتے ہیں
 (۳) وہ چیز جو بہت استعمال میں آئے۔
 تختہ خاک (ف - ا - مذ) زمین۔
 تختہ سیاہ (ف - ا - مذ) بیک بورڈ۔ لکڑی کا وہ چوکور ٹکڑا جس پر
 خاک سے لکھتے ہیں۔
 تختہ ٹھنڈل (ف - ع - مذ) (استعارہ) پرٹ - شکم۔
 تختہ لگانا (۱) - محاورہ) پھولوں کی کیاری تیار کرنا۔ ایک ٹکڑے میں
 بودے لگانا۔
 تختہ مرگ (ف - ا - مذ) وہ تختہ جس پر مردے کو نہلاتے ہیں۔
 تختہ مسک (ف - ا - مذ) ایک قسم کی میز جس پر کاغذ بچا کر نقشہ کشی
 کرتے ہیں۔
 تختہ مشق بنانا (۱) - محاورہ) کسی مقصد کے لیے کسی کو بار بار استعمال کرنا
 تختہ نرو (ف - ا - مذ) لکڑی کا وہ چوکور ٹکڑا جس پر نروں رکھ کر کھیلنے
 میں شطرنج کی بساط۔
 تختہ ہو جانا (۱) - محاورہ) اکلنا۔ ہانکنا۔ کھانٹنا۔
 تختی (ت - خ - نی) (۱) تخت کی تائینت و تصغیر۔ چھوٹا تختہ (۲)
 لوح۔ وہ لکڑی کا چھوٹا تختہ جس پر بچے مشق کرتے ہیں (۳) تانبے۔
 جاذبی عقیق باسی اور چیز کا وہ نقشہ کھرا ہو اگر اُڑا جو بچوں کے
 گلے میں نظر بند کے لیے ڈال دیتے ہیں (۲) وہ دھات کا ٹکڑا جس پر
 کوئی چیز کندہ ہو (۵) رنگین اور پتلا ریشہ کا ٹکڑا (۶) چھاتی سینہ
 کمر (۷) چھب۔ جسم کی وضع اور انداز (۸) کبوتر کی چھاتی (۹) حروف
 جو خط صاف کرنے کے لیے لکھتے ہیں (۱۰) لوح جس پر کچھ لکھ
 کر مزار یا کسی اور جگہ لگاتے ہیں (۱۱) تخت کا۔ تخت پر بیٹھنے والا۔
 تختہ والا (۱۲) سونے جانتی کے دروں سے بجا ہوا۔
 تختی پر تختی - میاں جی کی آئی کم بختی - (۱) ایشل) تختی پر تختی رکھنا۔

میاں جی کے لئے مخوس سمجھا جاتا ہے۔
 تختہ (ت - خ - د - یخ) (ع - ا - مذ) (۱) فریب دینا۔ دھوکا یاد غار دینا۔
 تختہ (ت - خ - ر - ج) (ع - ا - مذ) تاریخ کو یوں کی اصطلاح میں کسی مادہ
 تاریخ میں سے اعداد گننا کہ ٹھیک تاریخ نکالنا۔ مادہ تاریخ کی زیادتی
 کو درست کرنا۔ جمع: تخرجات۔
 تخریب (ت - خ - ر - یب) (ع - ا - مذ) (۱) ویرانی۔ بربادی۔ تباہی۔ خرابی۔
 اشتری۔ یعنی کئی (۲) خراب کرنا۔ اجاڑنا۔ جمع: تخریبات۔
 تخریب (ت - خ - یخ) (ع - ا - مذ) (۱) خراب کرنا۔ نکالنا۔ جمع: تخریبات۔
 تخصیص (ت - خ - یص) (ع - ا - مذ) (۱) خصوصیت۔ گن۔ سجاؤ (۲)
 محفوظ کرنا۔ محفوظ کیا جانا (۳) حق خصوص۔ جمع: تخصیصات۔
 تحظیم (ت - خ - ط - یه) (ع - ا - مذ) غلطی پر کرنا۔ کبھی کے کام میں نقص نکالنا۔
 تحقیق (ت - خ - یف) (ع - ا - مذ) (۱) کی۔ گنناؤ (۲) ہلکا کرنا (۳) حروف
 کے بولنے میں ہلکایا کم کرنا (۴) مصارف میں کمی (۵) اناقہ۔ آرام (۶)
 موقوفی۔ بطریق۔ جمع: تحقیقات۔
 تحقیق (ت - خ - یف) (ع - ا - مذ) (۱) ہتھیاروں میں کمی کرنا۔
 تحقیق تصدیق (ع - ا - مذ) (۱) اہست) ملاقات کے بعد رضعت ہونے
 پر ہر کلمہ کہتے ہیں۔ لفظی معنی: تکلیف کم کرنا۔
 تحقیق حرم۔ ہر جرم کا ہلکا کرنا۔ چھوٹے جرم والی دفعہ عائد کرنا۔
 تحقیق جمع۔ تحقیق لگانا (ع - ا - مذ) (۱) لگان میں کمی۔
 تحقیق کرنا (۱) - محاورہ) (۱) کی کرنا۔ گنناؤ (۲) نوکروں کو کم کرنا۔ موقوف
 کرنا (۳) خرچ میں کمی کرنا۔
 تحقیق میں آنا (۱) - محاورہ) (۱) کی میں آنا۔ برضا سنگی میں آنا۔ ملازموں
 میں کمی ہونے کی وجہ سے ملازمت سے ہٹ جانا (۲) ٹوٹ جانا جھگڑا
 تحقیق میں لانا (۱) - محاورہ) (۱) کرنے کے لئے کسی ملازم کو برطرف کرنا۔
 تخلخل (ت - خ - ل - ل) (ع - ا - مذ) (۱) کھوکھلا پن (۲) خلخال پہننا۔
 (۳) بھڑنا۔
 تخلص (ت - خ - ل - ل) (ع - ا - مذ) (۱) چھٹکارا۔ سجاؤ (۲) شاعر کا وہ مختصر
 نام، جو اشعار میں مستعمل ہو۔ جمع: تخلصات۔
 تخلف (ت - خ - ل - ل) (ع - ا - مذ) (۱) بد بھدی کرنا (۲) پیچھے رہ جانا (۳)
 دیر لگانا۔ واپس جانا۔ پھر جانا۔ جمع: تخلفات۔
 تخلل (ت - خ - ل - ل) (ع - ا - مذ) (۱) جھگڑا۔ فساد۔ تنازعہ (۲) نا اتفاقی۔
 ناموافقت (۳) مزاحمت۔ روک (۴) چھید کرنا۔
 تخلیص (ت - خ - ل - یص) (ع - ا - مذ) (۱) خلاصی دینا (۲) بچانا۔ بچھڑانا (۳)
 خلاصی۔ آزادی (۴) خلاصہ مطلب۔ جمع: تخلیصات۔
 تخلیط (ت - خ - ل - یط) (ع - ا - مذ) (۱) کلام میں باطل کا ملانا۔
 تخلیغ (ت - خ - ل - یغ) (ع - ا - مذ) (۱) مانعیت۔ اختلاف۔
 تخلیق (ت - خ - ل - یق) (ع - ا - مذ) (۱) پیدائش۔ پیداکرنا (۲) طبع زاد فن پارہ۔
 تخلیل (ت - خ - ل - یل) (ع - ا - مذ) (۱) وضو کے وقت ڈاڑھی میں انگلیاں ڈالنا۔
 خلل کرنا۔
 تخلیہ (ت - خ - ل - یه) (ع - ا - مذ) (۱) خلوت۔ تہنائی۔ علاحدگی (۲) خالی کرنا۔

ترت دان مہا کلیان - (مثل) فورا تیزت کرنا نبات کا باعث ہوتا ہے
ترت مانتھا ٹھکانا - (۱-۱۰ مجلد ۲) اسی وقت شک پیدا ہوگی۔
ترت ہی بوؤ - ترت ہی کھاؤ (مثل) تازہ پکا کر فورا ہی کھانا
باسی کھاؤ - اوجھ بڑھاؤ چاہیے۔ باسی کھانے سے
 بیٹ بڑھ جاتا ہے۔

ترتیا ترتیت - (ترت - تا - ت - رت) (۵) بہت جلد - فی الفور۔
ترتیا - ترتیا - (رت - رت - رت - رت) (۵) (صفت) (۱) تیز طرار۔
ترتیا - ترتیا - (۲) تیار، مستعد (۳) بہت بائیں بنانے والا۔
ترتیا - ترتیا - (۴) ستر سترانا۔

ترتیا ترتی - (رت - رت - رت - رت) (۱) (صفت) ترتی - بھگی۔
ترتیب - (ترتیب) (رت - رت - رت) (۱) درجہ بدرجہ رکھنا۔ ٹھکانے سے
 رکھنا۔ چننا (۲) سجاد (۳) بندوبست۔ صفت بندی (۴) طریقہ۔
 ڈھنگ (۵) جنس داری۔ سلسلہ بندی۔ تقسیم (۶) جبر و مقابلہ میں ہر
 قاعدے کا نام۔

ترتیب آہنی - (رت - رت - رت - رت) (۱) (صفت) ترتیب آہنی کا سلسلہ۔
ترتیب زینا - (۱) (مجاورہ) (۱) سلسلہ دار رکھنا۔ درست کرنا۔ ٹھکانے
 سے رکھنا (۲) مرتب کرنا (۳) سجانا۔

ترتیب سے - قاعدے سے۔ قرینے سے۔ سلسلہ دار۔
ترتیب وار سلسلہ دار - موقع بہ موقع۔ درجہ بدرجہ۔
ترتیل - (رتیل) (رت - رت - رت) (۱) (صفت) قرآن شریف کے حرف کو خارج سے
 ادا کر کے پڑھنا۔ جمع، ترتیلات۔

ترجانا - ترنا - (رت - جانا) (رت - نا) (۱) (صفت) پانی کے اوپر آنا۔
 (۲) نیک نام ہونا (۳) مال مال ہونا (۴) ثواب کا مستحق ہوجانا۔
ترجک - (رت - جک) (۱) (صفت) ترلوک - مین عالم۔

ترجمان - (ترج - مان) (رت - ا - مذ) (۱) شارح، مختصر تعبیر کرنے والا (۲)
 کسی مقرر کی تقریر کا فی البدیہہ ترجمہ کرنے والا (۳) وہ شخص جو دو مختلف
 زبانوں کو بولنے والے افراد کے درمیان رابطہ کا کام کرے اور ایک کو
 دوسرے کا مفہوم و منشا سمجھائے۔

ترجمانی - (ترج - مان) (رت - ا - مذ) (۱) (صفت) مترجم - تفسیر - تعبیر۔
 (۲) ترجمان کا کام۔

ترجمہ - (ترج - مان) (رت - ا - مذ) (۱) ایک زبان سے دوسری زبان میں
 بیان کیا ہوا۔ جمع: تراجم۔

ترجمہ نویس - مترجم۔ ترجمہ لکھنے والا۔
ترجی - (رت - جی) (رت - ا - مذ) (۱) (صفت) ایسی چیز کی امید جس کا حاصل
 ہونا آسان ہو۔

ترجیح - (ترجیح) (رت - ا - مذ) (۱) (صفت) فضیلت برتری۔ جمع، ترجیحات۔
ترجیح بلا مرجح - (رت - ا - مذ) (۱) (صفت) بلاوجہ فوجیت دینا۔

ترجیح دینا - (صفت) مرجح - فضیلت دینا۔ فوجیت دینا۔ بہتر سمجھنا۔
ترجیح رکھنا - (۱) (مجاورہ) فضیلت رکھنا۔ چاہنا یا بہتر ہونا۔ فوجیت رکھنا۔
ترجیح - (ترجیح) (رت - ا - مذ) (۱) (صفت) (۲) بازداشت (۳) شادوں کا اپنی

ترہیت - (ترہ - بیت) (رت - ا - مذ) (۱) (صفت) پرورش۔ پرداخت (۲) تعلیم و
 تہذیب - تعلیم اخلاق۔

ترہیت پر تیر - (رت - ا - مذ) (۱) (صفت) ترہیت کا اثر لینا۔ اصلاح قبول کرنا۔
ترہیت کرنا - (۱) (مجاورہ) تعلیم دینا۔ سکھانا (۲) پرورش کرنا۔ پالنا۔

ترہیت نااہل راہ چوں کرد و گال - برگنبد است - (رت - بقولہ)
 (۱) نا لائق کو ترہیت کرنا ایسا ہے جیسا کہ گنبد پر اغروٹ پھینکنا کہ نہیں ٹھہر
 سکتا (۲) کیسے پر ترہیت کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔

ترہیدی - (ترہ - بی) (رت - ا - مذ) (۱) (صفت) تین میدوں کا جاننے والا (۲) ہر پہلو
 کی ایک قوم۔ یہ لفظ اصل میں تریدی ہے۔

ترہین - (ترہین) (رت - ا - مذ) (۱) چار میں تقسیم کرنا (۲) مزاج یا مستطیل بنانا۔
 (۳) سیاروں کی وہ ہمیت۔ جب ایک دوسرے سے جو فضائی دائرے کا
 فرق ہو (۴) روشے رو بے کا زاویہ۔ زاویہ قائمہ۔

ترہینی - (ترہینی) (رت - بی) (رت - بی) (۱) (صفت) (۲) وہ جگہ جہاں تین
 دریا ملیں۔

ترہ - (اثر زنی Troop) اکامور۔ ساٹھ یا اسی سواروں کی جماعت (۲)
ترہب (Trump) اکامور۔ تماش میں الٹ مقرر کر کے کھیلنا۔

ترہ پال - (ترہ پال) (ارت - ا - مذ) (۱) (صفت) تارپالین کا بگڑا ہوا۔ وہ
 ٹماٹ جس پر رال چڑھائی گئی ہو اور بارش کے موقع پر مال اسباب کے
 اوپر ڈالنے کے کام آئے۔ اس میں پانی سہاوت نہیں کرتا۔

ترہ پانی - (ترہ پانی) (ارت - ا - مذ) (۱) (صفت) بچنے کے اوپر کی سیون۔
ترہ پانی کرنا - (۱) (صفت) بچنے کے اوپر سمانا کرنا۔

ترہ پان کھانا - (رت - پان) (رت - ا - مذ) (۱) (صفت) اے قرار ہونا۔
ترہ پن - (رت - پن) (رت - ا - مذ) (۱) (صفت) ہندو دیوتاؤں یا پتروں کو پانی دینا (۲) تسلی
 تشفی (۳) خوشی۔ رضا (۴) سیری - آسودگی۔

ترہ پن - (رت - پن) (ارت - ا - مذ) (۱) (صفت) پچاس اور تین۔ مادوں کے بعد کا چندہ۔ ۵۳۔
ترہ پن - (رت - پن) (ارت - ا - مذ) (۱) (صفت) ایک قسم کی سلائی، جو اکثر کنا سے پرکوریں
 دبانے کے لیے کی جاتی ہے۔

ترہ پننا - (رت - پننا) (رت - ا - مذ) (۱) (صفت) سیون پر ایک اور سلائی کرنا۔
 پڑے کے ترسے کو الٹا کر لینا۔

ترہ پولیا - (رت - پولیا) (یا - ا - مذ) (۱) (صفت) تین درہ کی ٹمارت (۲) ایک
 سمت میں تین برابر بڑے دروازے، جو بازار میں بناتے ہیں۔
ترہ پھرنا - (رت - پھرنا) (رت - ا - مذ) (۱) (صفت) بے قرار ہونا۔

ترہ پھل - (رت - پھل) (رت - ا - مذ) (۱) (صفت) ہر پہلو اور اطلہ ان تینوں دواؤں کو
 چر بھلا کہتے ہیں (۲) تین جنس کا چانور)۔
ترہیت - (رت - رت) (رت - ا - مذ) (۱) (صفت) فورا۔ جلد۔ ابھی۔ اسی وقت۔

ترت پھرت - (رت - پھرت) (رت - ا - مذ) (۱) (صفت) پھرتی چالاک تیزی۔ طراری (۲) بہت
 جلد اور پھرتی سے۔ فورا۔

ترت پھرت ہوں - (مثل) (۱) (صفت) کام کی رو بہ پاس ہوتو ہر کام
ترب ہوویں - (مثل) (۱) (صفت) کام کی رو بہ پاس ہوتو ہر کام
ترت دام - (مثل) (۱) (صفت) فورا ہونا۔

ترکت سے مغرب سے مشرق کی طرف جانے میں رجعت کرنا (مجموع)
 ترمج بند - (رغ - ف - ۱ - مذ) اصطلاح شعر میں شاعر کا چند ایسے بند
 جو بحر میں موافق اور قدے میں مختلف ہوں۔ اس طرح نظر کرنا کہ ایک
 ہی بیت ہر بند کے آخر میں لے اور ہر بند کے آخری شعر کے مضمون کو موافقت کرے
 ترچیا - (تر - چہا - ۵ - صف) (۱) میڑھا - کج - آڑا - بندھا - اوریب (۷) مخالف -
 مغرب (۳) ناخوش (۴) بے وقوف - احمق (۵) بانکا - جھیللا (۶) ایک قسم
 کا ریشمی کپڑا جس کا اکثر ستر لگایا جاتا ہے -
 ترچیا پن - (۱ - ۵ - مذ) بانگین - ترچیا ہونا -
 ترچیا ٹھوڑا - وہ ٹھوڑا جو سر کے ایک طرف بندھا ہو -
 ترچیا دیکھنا - (۱ - محاورہ) (۱) ترچی نظروں سے دیکھنا - کن انھیوں سے
 دیکھنا (۲) بینگنا ہونا یا دیکھنا -
 ترچیا کرنا - (مض - مرکب) میڑھا کر دینا - دھولان کرنا -
 ترچیا لگنا - (۱ - محاورہ) (۱) میڑھا ہو کر لگنا (۲) آڑا لگنا (۳) میڑھا معلوم ہونا
 ترچیا ہونا - (۱ - محاورہ) (۱) میڑھا ہونا (۲) ناخوش ہونا - غصے ہونا -
 ترچی - (تر - چھی) (۵ - صف) میڑھی - بائی - ترچھا کی تائینت -
 ترچی آنکھ - ترچی نظر - ترچی نگاہ - (۱ - ۵ - مذ) (۱) قہر کی نظر -
 غصے کی نگاہ (۲) نگاہ تازہ معوقانہ انداز سے دیکھنا -
 ترخم - (۱ - ۲ - مذ) (۱) رخم - ترس (۲) شفقت کرنا -
 جمع : ترخمت -
 ترخنا - (ر - زخ - نا) (۵ - صف) ترکنا - شگاف ہونا - پھٹ جانا -
 ترخیص - (تر - خیس) (ر - ۱ - مذ) رخصت - اجازت - جمع : ترخیصات -
 ترخیم - (تر - خیم) (ر - ۱ - مذ) (۱) ڈم کا ٹٹا (۲) اصطلاح نوحیوں کسی گلے کے
 آخر سے کسی حرف یا جزو لفظ کو دور کرنا - جیسے مانند سے مان -
 تر دو - (ر - ۲ - مذ) (ر - ۱ - مذ) (۱) سوخ - فکر ماندیشہ (۲) شش دہنچ -
 پس و پیش - تذبذب (۳) گھبراہٹ - پریشانی (۴) انکار (۵) محنت شفقت
 پر (۶) کاشت کاری - جمع : تردوات -
 تردونا جائز - خلاف قانون کاشت - ناجائز کاشت -
 تردیلہ - (تر - وید) (ر - ۱ - مذ) رد کرنا - جواب دینا - جمع : تردیدات -
 ترس - (ر - ف - ۱ - مذ) ڈر - خوف - دہشت -
 ترساک - ڈرا ہوا -
 ترس - (ر - ۱ - ۵ - مذ) (۱) رخم - دیا (۲) درد - خوف خدا -
 ترس آنا - (۱ - محاورہ) رخم آنا -
 ترس جانا - (۱ - محاورہ) خواہش مند ہونا - کسی چیز کا بھوکا ہونا -
 ترس لگانا - (۱ - محاورہ) رخم کرنا -
 ترسا - (تر - سا) (ر - صف) (۱) ڈرانے والا - خوف کھانے والا (۲) (۱ - مذ)
 نعلانی (۳) آتش پرست (۴) ترسانا کا امر -
 ترسا ترسا کر دینا - (۱ - محاورہ) خواہش سے کم دینا - شوق دلا کر
 بھڑکانا -
 ترسا ترسا کر مارنا - (۱ - محاورہ) (۱) سخت شوق دلا کر نہ دینا بلکہ لپٹا
 کر نہ دینا (۲) بڑی تکلیف سے ماننا -

ترساں - (تر - ساں) (ر - صف) خوف زدہ - ڈٹتا ہوا - خائف -
 ترسانا - (تر - ساں) (۵ - صف) (۱) لیٹانا - بھونکنا - امید دلانا - (۲) خواہش سے
 کم دینا - ضرورت کے موافق نہ دینا -
 ترسطھ - (تر - سطھ) (۵ - صف) تین اور ساتھ باٹھ کے بعد کا عدد - ۶۳ -
 ترستا - (ت - ر - س - نا) (۵ - صف) (۱) غماش مند ہونا (۲) کسی چیز کا بھوکا ہونا -
 (۳) ایسی چیز کی امید رکھنا جو یا تو نہ آسکے (۴) اشتیاق میں رہنا (۵)
 بے چین ہونا (۶) محتاج ہونا تنگ ہونا -
 ترستول - (تر - ستول) (۱ - ۵ - مذ) (۱) تین نوک کا نیزہ یا بھالا (۲) شوجی
 کا ہتھیار -
 ترستیل - (تر - ستیل) (ر - ۱ - صف) (۱) پھینا - روانہ کرنا -
 ترستہ - (ر - صف) (۱) کھٹا - (۲) ناخوش (۳) بد مزاج - بد دماغ -
 ترستیش رو - (ر - صف) (۱) ناخوش (۲) بد مزاج - چڑچڑا - بد مزاج - بد خو
 ترستیش روئی - (ر - ۱ - صف) (۱) بد مزاجی -
 ترستیش مزاج - (ر - صف) (۱) بد مزاج - بد خو
 ترستیش ہونا - (۱ - محاورہ) کھٹا ہونا مدغیدہ ہونا - برام ہونا -
 ترستا وا - (۱ - ۵ - صف) ایسوں نارنجی وغیرہ کی قسم کے پھل یا درخت -
 ترشح - (ر - ش - شخ) (ر - ۱ - ۵ - مذ) (۱) ظاہر آشکارا (۲) تقاطر - بوند باندی
 ترشح جمع : ترشحات -
 ترشچا ہونا - (مرکب مض) (۱) چمکانا (۲) ظاہر ہونا - پایا جانا -
 ترشن - (تر - شن) (ر - ۱ - ۵ - صف) (۱) پھیلنا -
 ترشنا - (ر - ش - نا) (۵ - صف) (۱) چاقو یا چھری وغیرہ سے کٹنا - قلم ہونا -
 ترشیتی - (تر - شیتی) (ر - ۱ - صف) (۱) کھٹاس - کھٹائی -
 ترشیح - (تر - شیح) (ر - ۱ - صف) (۱) شاعر کی ایک صنعت جس میں شعر اس طرح
 لکھے جاتے ہیں کہ ترتیب وار تمام مصرعوں کے پہلے حرف ماننے سے
 کوئی نام یا عبارت بن جاتی ہے -
 ترصد - (ر - ص - صد) (ر - ۱ - ۵ - مذ) (۱) انتظار - امید - آس (۲) امید رکھنا -
 گھات لگانا -
 ترصیح - (تر - صیح) (ر - ۱ - صف) (۱) شاعر کی ایک صنعت جس میں دونوں
 مصرعوں کے تمام الفاظ بالترتیب ہموزن ہوتے ہیں - جیسے سے
 نام تیرا ہے زندگی میری
 کام میرا ہے زندگی تیری
 ترطیب - (تر - طیب) (ر - ۱ - صف) (۱) رطوبت پہنچانا - ترکنا - مزاج میں
 نرمی پیدا کرنا -
 ترغیب - (تر - رغیب) (ر - ۱ - صف) (۱) رغبت دلانا - لالچ دلانا (۲) کسی
 کام کے کرنے پر آمادہ کرنا (۳) شوق - خواہش (۴) اعوا - بہکا دا -
 جمع : ترغیبات -
 ترغیب دینا - (۱ - محاورہ) لالچ دینا - رغبت دلانا - شوق دلانا -
 ترخان - (تر - خان) (ر - ۱ - ۵ - مذ) (۱) ایک کنوٹی لمبی سریتی - جس سے بندوق کی
 طرف پانی اندر سے صاف کی جاتی ہے -
 تررقع - (ر - ف - ۱ - ۵ - مذ) (۱) بندی چاہنا (۲) غرور - تکبر - جمع : تررقعات
 کرنے دینا (۲) بڑی تکلیف سے ماننا -

ترک قوم - (ت-رق-رف-رقہ) (ع-۱-اند) و لہندی، خوشحالی، آسودگی۔
 ترقیانا - (تر-قا-نا) (اُر-مصن) توڑنا، شق کرنا۔
 ترتیب - (رت-رتق-تبق) (ع-۱-اند) امید، توقع۔
 ترتیبنا - (رت-رتق-تا) (اُر-مصن) چھٹنا، شق ہونا، بالی آنا۔
 ترتیبی - (رت-رتق-تی) (ع-۱-مشت) (۱) آگے بڑھنا (۲) اونچا ہونا۔ (۳) افزندی
 اصناف (۴) بندی، برتری۔ جمع، ترقیات۔
 ترقی اقبال ہو۔ (دعا) اقبال بڑھے! ترقی کروا۔
 ترقی بخش۔ (ف-صفت) اصناف کرنے والا۔ بڑھانے والا۔
 ترقی پانا۔ (۱-محاورہ) (۱) عہدہ بڑھانا۔ درجہ بڑھانا (۲) خواہ میں اضافہ ہونا۔
 (۲) لوگوں کا اوپر کی جماعت میں چڑھایا جانا۔
 ترقی پذیر۔ (ع-ف-صفت) بڑھنے والا۔ ترقی قبول کرنے والا۔
 ترقی پرمونا۔ (۱-محاورہ) ترقی کرنا۔
 ترقی پسند۔ (۱) آگے بڑھنے والا۔ ترقی کا خواہاں۔ جدید معاشی اور سائنسی
 نظریات کا حامی۔ قدامت پسند اور رجعت پرست کی ضد (۲) (اصطلاحاً)
 اشتراکی، اشتراکی۔ (انگ) (Progressive)
 ترقی خواہ۔ (ف-صفت) ترقی چاہنے والا۔
 رتی دینا۔ (۱-محاورہ) (۱) عہدہ یا درجہ بڑھانا (۲) خواہ بڑھانا۔
 رتی کرنا۔ (مص-مرکب) (۱) مرتبہ زیادہ ہونا۔ آگے بڑھنا (۲) عہدہ
 بڑھانا (۳) مال دولت زیادہ ہونا (۴) کسی امر میں زیادہ واقفیت
 حاصل کرنا۔
 ترقی یافتہ۔ (ع-ف-صفت) ترقی پایا ہوا۔
 ترقیق - (تر-یق-یق) (ع-۱-مشت) پتلا ہونا، ہلکا ہونا۔ پانی کی طرح ہونا۔
 ترقیم - (تر-قیم) (ع-۱-مشت) (۱) کھٹنا، تجربہ کرنا (۲) تحریر۔
 ترک - (ع-۱-اند) (۱) چھوڑنا۔ درگزر (۲) بھول۔ چوک (۳) دست برداری۔
 (۴) وہ عبارت جو کلمے سے رہ جائے اور حاشیے پر لکھ دی جائے۔
 ترک ادب - (ع-۱-اند) بے ادبی، گستاخی، بدہتدبی۔
 ترک اوق - (ع-۱-اند) اس نفل کا ترک۔ جس کا کرنا افضل ہے۔
 ترک حیوانات - (ع-۱-اند) ان چیزوں کا ترک جو حیوانات سے
 بنے ہوئے ہیں جیسے گوشت، دودھ، دہی وغیرہ۔
 ترک دینا - (ع-۱-اند) غلط گوئی، فقیر ہو جانا، دنیا چھوڑ دینا۔
 ترک سلطنت - (ع-۱-اند) حکومت سے دست بردار ہونا۔
 تخت چھوڑنا۔
 ترک شراب - (ع-۱-اند) شراب نوشی چھوڑ دینا۔
 ترک صحبت - (ع-۱-اند) دوستی توڑ دینا۔ قطع تعلق کر لینا۔
 ترک عادت - (ع-۱-اند) کسی عادت کو چھوڑ دینا۔
 ترک کرنا۔ (مص-مرکب) (۱) چھوڑ دینا۔ تیاگنا (۲) کسی چیز سے باز آنا۔
 قطع تعلق کر لینا۔ انگ ہو جانا۔
 ترک لذات - (ع-۱-اند) عیش و عشرت چھوڑ دینا۔ آرام و آسائش
 ترک نہیں چھوڑ دینا۔
 ترک نگانا۔ (۱-محاورہ) اجزاء کو ترتیب دینا۔

ترک موالات - (ع-۱-اند) کسی کے ساتھ بل کر کام نہ کرنا (۲) عدم
 تعاون۔ نان کو پریش۔
 ترک وطن - (ف-اند) ہجرت کرنا۔ پناہ پس چھوڑ دینا۔ ہجرت۔
 ترک ہونا۔ (۱-محاورہ) چھوڑ جانا۔
 ترک - (ف-اند) (۱) یافتہ بن نوح کے ایک بیٹے کا نام جس سے کہتے
 ہیں کہ ترکوں کا سلسلہ چلتا ہے (۲) اتا ریا ترکتان کا باشندہ (۳) معشوق۔
 (۴) سپاہی۔ بہادر (۵) مسلمان۔ جمع: اترک۔ ترکمان۔
 ترک نچتر۔ (ف-اند) ترک کا لڑکا (۲) حسین نوجوان۔
 ترک تازہ۔ (ف-صفت) (۱) سپاہی لشکر یا بیگماری۔ تنگنا (۲) ٹیٹرا۔ قزاق۔
 ترک تازی۔ (ف-۱-مشت) (۱) لوٹ مار۔ ناخست و ناواج۔ حملہ۔ بہ۔
 دھار (۲) دوڑ دھوپ۔
 ترک چین۔ ترک روز۔ ترک روزگار۔ آفتاب۔ سورج۔
 ترک قیق۔ ترک گردوں۔ ترک نیمروز۔
 ترک تسمک۔ ظالم معشوق۔
 ترک سوار۔ (ف-صفت) مسلمان سپاہی، جو گھوڑے پر سوار ہو۔
 ترکاری۔ (تر-کار-ری) (اُر-۱-مشت) (۱) بھابی، ساگ پات۔ سبزی (۲)
 (ہندو) گوشت۔ ماس۔
 ترکاری بنانا۔ (۱-محاورہ) (۱) سبزی کو پکانے کے لیے تیار کرنا (۲) سبزی
 پکانا (۳) گوشت پکانا۔
 ترکاری چرھانا۔ (۱-محاورہ) ترکاری کو بنا کر چولھے پر رکھنا۔
 ترکال۔ (تر-کال-ف) (۱-مشت) ترک کی جمع۔ ترک قوم کے لوگ۔
 ترکان جرح۔ سات یارے۔ زہرہ۔ بستری۔ زعل۔ عطارد مرتع۔ شمس قبر۔
 ترکا بنہ۔ (تر-کابنہ) (ف-صفت) ترک کی طرح۔ ترکی۔
 ترکانی۔ (تر-کانی) (ف-۱-مشت) ایک ڈھیلہ ڈھالا کپڑا، جو ترک عورتیں
 پہنتی ہیں۔
 ترکٹا۔ (تر-کٹ-ٹا) (ف-۱-اند) سوٹھ۔ پیل اور کالی مرغ کا سفوف جو بید
 لوگ ہانسنے کے لئے بناتے ہیں۔
 ترکٹی۔ (تر-کٹ-ٹی) (س-۱-مشت) سنگلا۔ سلائی۔
 ترکٹیس۔ (رق-صفت) ٹیٹھا۔ اڑا۔
 ترکٹش۔ (تر-کٹش) (ف-۱-اند) تیر رکھنے کا خول۔ تیردان۔ تیرکش کا مخفف۔
 جمع: ترکش با۔
 ترکمان۔ (ترک-مان) (ف-۱-اند) ترکوں کی ایک قوم۔
 ترکم ترکا۔ (تر-کم-تر-کا) (اُر-۱-مشت) ان بن۔ دینا جملنا موقوف کر دینا۔
 ترکین۔ (تر-کین) (ف-۱-مشت) (۱) ترک کی بیوی (۲) ترک قوم کی عورت (۳)
 سپاہی کی جوڑو (۴) گنوار (مسلمان عورت)۔
 ترکئی۔ (تر-کئی) (ف-۱-مشت) وہ عورت جو شہابی عمل میں چوکی پہاڑ یا
 کرتی تھی۔ تلمنا تھی۔
 ترکہ۔ (تر-کے) (ع-۱-اند) (۱) مردے کی جائیداد۔ وہ جائیداد جو انسان مرنے
 سے پہلے چھوڑے (۲) وراثہ۔ میراث۔ جمع: ترکہ جات۔
 ترکہ بلنا۔ (مص-مرکب) جائیداد وارثوں میں تقسیم ہونا۔

ترک بلا وصیت نامہ - وہ ترکہ جس کے متعلق مردے نے کوئی وصیت نہ کی ہو۔

ترک پدیری - باپ کا چھوٹا ہونا مال اسباب۔

ترکے میں آنا - (۱) محاورہ، دوشے میں ملنا۔

ترکے میں چھوڑنا - (۱) محاورہ، مرے پیچھے مال و جائیداد چھوڑنا۔

ترکی - (۱) ترک کی، ترکوں کی بولی، (۲) ترکستان کا گھوڑا، (۳) عزر و سخت

ترکستان کا باشندہ، (۵) ترکستان کا بنا ہوا، (۶) ترکستان کے متعلق یا ترک کے متعلق۔

ترکی بہ ترکی جواب دینا - (۱) محاورہ، (۱) جیسا کوئی کہے۔ ویسا جواب دینا، (۲) سخت جواب دینا۔

ترکی بیٹے - تازہ (کا پیے) کے کان ہوں - (مثل) ایک کوسرا کا دوسروں پر اثر ہو۔

ترکی تمام ہونا - (۱) محاورہ، (۱) گھنڈ جاتا رہنا۔ عزر و نکلنا، (۲) کچھ نہ باقی رہنا، (۳) ساری بہادری نکلنا۔

ترکیب - (۱) ترکیب، (۲) ع - (۱) (مث) (۱) کئی چیزوں کو ملا کر ایک چیز بنانا۔

مرکب کرنا - (۲) بناوٹ، ساخت - بناوٹ، تناسب (۳) ڈھنگ - طور کسی چیز کے بنانے کا کوئی خاص طریقہ (۴) تدبیر - علاج (۵)

اصطلاح ٹوہیں جملے کے ہر لفظ کے متعلق بتانا کہ وہ اسم، صفت، فعل وغیرہ کیسا ہے اور ان کا باہمی تعلق - جمع : ترکیب۔

ترکیب بند - (۱) ع - ف - ا - (مث) نظم کی ایک قسم جس میں ہر بند کا آخری شعر خدا کا نہ ہوتا ہے۔

ترکیب دینا - (۱) محاورہ، (۱) ملانا، بنانا، (۲) مختلف اجزا کو ملا کر تیار کرنا۔

ترکیب سوچنا - (۱) محاورہ، طریقہ خیال میں آنا۔ تدبیر سوچنا۔

ترکیب سے چلنا - (۱) محاورہ، کفایت شعاری برتنا، خاص اصولوں پر کاربند ہونا۔

ترکیب کرنا - (۱) محاورہ، (۱) تدبیر کرنا، صورت نکالنا، (۲) بنانا، ملانا،

مرکب کرنا، (۳) بندوبست یا انتظام کرنا، (۴) جملے کے الفاظ کی اقسام اور تعلقات بتانا۔

ترکیب نکالنا - (۱) محاورہ، تدبیر بتانا، ڈھنگ نکالنا، طریقہ سوچنا۔

ترکیب نکلنا - (۱) محاورہ، طریقہ نکلنا، ڈھنگ معلوم ہونا۔

ترکیبی - (ترکی بولی) - (ع - ف - ح - ص) (۱) مرکب، بنا ہوا، ملا ہوا (۲) بناوٹ، مصنوعی، ساخت۔

ترکر - (ع - ف) تین گنا، سہ گنا۔

ترکر لوک - (ترکر لوک) - (ع - ا - ہ) (۱) تین عالم، آسمان - زمین اور پائال -

(۲) کائنات۔

ترکم - (مث) - (ع - ا - ہ) (۱) ایک قسم کا باجا، بگل، مرنی، منہ سے بجانے کا وہ آلہ جس میں فوج میں قواعد کا حکم سنا یا جاتا ہے۔

ترکم باز خاں - (ع - ا - ہ) (مث) شیخی باز خاں۔

ترم - (ترم، تم، تی) - (ع - ا - ہ) (مث) باز خاں کے ایک قسم۔

ترمر - (ترمر) - (ع - ا - ہ) (مث) چٹانی کا دھبہ، جو پانی یا شور بے پر آجاتا ہے۔

(۱) وہ تارے، جو صدمہ دماغی یا کمزوری کے باعث آنکھ کے سامنے اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں - جمع : ترمرے۔

ترمر اہلٹ - (ترم، جم، ما، ہلٹ) - (ع - ا - ہ) (مث) چندھیانا۔

ترمشند - (ع - ح - ص) (مث) مکار، جیلہ باز۔

ترمیم - (ترم، ترمیم) - (ع - ا - ہ) (مث) اصلاح، درستی، مرمت، سنوار (۲) تیز و

آہستہ۔ جمع : ترمیم، ترمیمات۔

ترنج - (مث) - (ع - ا - ہ) (مث) (۱) پھوڑا، ایک قسم کا بڑا میوہ (۲) کارچولی

کام کے پان کی شکل جو شال وغیرہ کے کونوں پر بنا دیتے ہیں۔

ترنجبین - (مث) - (ع - ا - ہ) (مث) ایک قسم کی قدرتی شکر جو اونٹ

کٹارے کے کاتوں پر شہم کی طرح گر کر جم جاتی ہے۔ (۲) انشردہ میوں

جس میں کھانڈ ملا کرتے ہیں۔

ترنڈا - (ع - ح - ص) (مث) لکڑی کا وہ چھوٹا ٹکڑا جو پانی پر تیرتا ہے۔

ترنڈی - (مث) - (ع - ا - ہ) (مث) آنت۔

ترنگ - (مث) - (ع - ا - ہ) (مث) (۱) تیر کے چھوٹے کی آواز (۲) ساز بجاتے وقت تار کی صدا۔

ترنگ - (مث) - (ع - ا - ہ) (مث) (۱) لہر، موج، اُٹنگ، جوش، جذبہ۔

(۲) ہنسنے کی حرکت (۳) وہم (۴) شیخی، نقلی، لاف و دکان۔

ترنگ آنا - (۱) محاورہ، (۱) جوش پیدا ہونا، طبیعت میں لہر اٹھنا۔

ترنگ - (مث) - (ع - ا - ہ) (مث) گھوڑا۔

ترنم - (مث) - (ع - ا - ہ) (مث) (۱) لاپٹا، (۲) غنا، آلاپ -

جمع : ترنمات۔

ترنم ریز - (ع - ف - ح - ص) (مث) ترنم پیدا کرنے والا، گانے والا۔

ترنم سرا - (ع - ف - ح - ص) (مث) گانے والا۔

تروٹ - (تر، ڈٹ) - (ع - ا - ہ) (مث) ایک قسم کا گانا، ترانہ (۲) فورا -

جلد (ع)

تروڑ - (تر، ڈر) - (ع - ا - ہ) (مث) ایک درخت جس کی چھال چرمار نکلنے کے کام

آتی ہے اور پھیل اور بیج دوایتوں میں استعمال ہوتے ہیں۔

تروچ - (تر، دنج) - (ع - ا - ہ) (مث) رواج دینا، اشاعت کرنا۔

ترویدی - (تر، دے) - (ع - ا - ہ) (مث) (۱) تین دید جاننے والا (۲) (۱) (مث) وہ برہمن جس نے تین دید پڑھے ہوں (۳) برہمنوں کی ایک قسم۔

تروید - (ع - ا - ہ) (مث) ذرا لہجہ کی آٹھوں تاریخ اس دن ج شروع ہوتا ہے۔

ترہ - (مث) - (ع - ا - ہ) (مث) ساگ، ترکاری، سبزی۔

ترہ فیروز - (ع - ا - ہ) (مث) سبزی یا ترکاری پیچھے والا، کھڑا۔

ترہی - (ترہی، تری) - (مث) - (ع - ا - ہ) (مث) (ری) - (۱) (مث) (۱) (مث) ایک قسم کی لمبی لغیری۔

تروہی - (مث) - (ع - ا - ہ) (مث) (۱) (مث) ایک ترکاری کا نام، توری۔

ترلی - (مث) - (ع - ا - ہ) (مث) (۱) ترلی کے زرد پھول کی مانند جس کی زردی آٹھوں

کو خوش نما معلوم ہوتی ہے (۲) روپے کا اس طرح چرچ ہونا کہ

کم معلوم نہ ہو۔

ترلی - (مث) - (ع - ا - ہ) (مث) (۱) رطوبت، نمی (۲) بھر، سندر۔

تار - (ت۔س۔ر۔ا۔ہ۔ا۔مٹ) (۱) کبر۔ پالا (۲) سردی۔ ٹھنڈ۔

تالالہ - (ت۔س۔ا۔ل۔ہ۔صفت) عین برکس کا۔

تاسخ - (ت۔س۔خ۔ج) (د۔ع۔۱۔۱۱) باہمی ہیربانی۔ شفقت یا معافی۔
 باہمی فیاضی (۱۲) چشم پوشی (۱۳) اس طرح بیان کرنا کہ مطلب صاف
 ظاہر نہ ہو (۱۴) ذومعنی بات کہنا (۱۵) سہو۔ غلطی۔ جمع: تاسخات۔

تاوی - (ت۔س۔و۔ی) (د۔ع۔۱۔مٹ) (۱) برابر۔ مساوات۔ ہمسری۔
 (۲) مشابہت۔ مطابقت۔ یکسانیت۔

تاہل - (ت۔س۔ہ۔ل۔ج) (د۔ع۔۱۔مٹ) (۱) استیغفلت۔ آنکسی (۲) سہل
 انگاری۔ آسان سمجھنا۔ جمع: تاہلات۔

تایب - (ت۔س۔ب۔ج) (د۔ع۔۱۔مٹ) (۱) ستوداروں کی مالہ۔ سُبْحِم (۲) اللہ اللہ
 کہنا۔ خدا کو یاد کرنا۔ سبحان اللہ کا ذکر کرنا (۳) درد۔ دلچسپ۔

جمع: تائبیات۔

تایب پڑھتے رہنا - (۱) محاورہ (ہر وقت کسی کی یاد میں رہنا۔ ہر
 وقت خدا کو یاد کرنا۔

تایب پڑھنا (پڑھنا) پھیرنا - (۱) محاورہ (وظیفہ کرنا۔ ملا جینا۔

تایب پڑھنی جاننا - (۱) محاورہ (بار بار کسی کا نام لیا جانا۔

تایب پھروں کسی کو گھیروں - (مٹ) سخت ریا کاری یا مکانہ کے متعلق
 کہتے ہیں۔

تایب خوان - (د۔ع۔ف۔صفت) تیب پھرنے والا۔

تایب خوانی - (د۔ع۔ف۔مٹ) وظیفہ پڑھنا۔

تایب سیمانی - (د۔ع۔ف۔مٹ) سنگ سیمانی کے دائروں کی تیب
 جن کی سیاہی کے درمیان سفید بکھر جاتی ہے۔

تایب فاطمہ - (د۔ع۔۱۔مٹ) وہ وظیفہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی
 صاحبزادی حضرت فاطمہ کو ہر فرض نماز کے بعد پڑھنے کے لئے تعلیم فرمایا۔

تایب ۱۱ میں سبحان اللہ ۳ بار۔ الحمد للہ ۳۴ بار۔ اللہ اکبر ۳۴ مرتبہ ہے۔

تایب - (د۔ع۔مٹ) سات حصوں میں تقسیم کرنا۔ صفت پہلو شکل بنانا۔

تایب (تس بئر) (د۔ع۔۱۔مٹ) (۱) فرا بن دار بنانا۔ تابع کرنا (۲) گھیرنا۔ محاورہ
 کرنا (۳) قابو میں لانا۔ جن یا پڑی کو قید کرنا (۴) کسی کا دل اپنی طرف مائل
 کرنا (۵) روحانیت کا ایک عمل۔ محاضرات کا علم۔ جمع: تیبیات۔

تایب قلب - (د۔ع۔ف۔صفت) دل کو اپنی طرف مائل کرنا۔

تایب - (تس۔دیس۔د۔ع۔۱۔مٹ) (۱) چھ بنانا چھ میں تقسیم کرنا (۲)
 پیش پہلو شکل بنانا (۳) دوستی داروں کا مظہر۔ جب ان کا فاصلہ
 ۶۰ درجے کا ہو۔

تایب - (تس۔ظہر۔د۔ع۔۱۔مٹ) سطر بندی کرنا۔ قلمبند کرنا۔ لکھنا۔
 تسکین - (تس۔بکین) (د۔ع۔۱۔مٹ) (۱) آرام دینا (۲) تسلی۔ دلاسا۔ اطمینان
 (۳) اناقمہ۔ آرام (۴) اصطلاح قواعد میں حروف کو ساکن کرنا۔

تسکین بخش - (د۔ع۔ف۔صفت) تسلی دینے والا۔ اطمینان دینے والا۔
 تسکین دل - (د۔ع۔ف۔صفت) دل تیبی۔ ڈھارس۔

تسلا - (تس۔لا۔د۔ع۔۱۔مٹ) پرات۔ تانبے یا پتیل کا طشت۔

تسل - (ت۔س۔ل۔ج) (د۔ع۔۱۔مٹ) (۱) تسلسلہ۔ لڑی (۲) جاری ہونا۔

تس۔ جمع: تسلات۔

تسلط - (ت۔س۔ل۔ج) (د۔ع۔۱۔مٹ) (۱) حکومت۔ غلبہ۔ قابو۔ عمل (۲)

تسلط (تس۔ل۔ج) قبضہ۔ دخل۔

تسلط (تس۔ل۔ج) (د۔ع۔۱۔مٹ) (۱) محاورہ حکومت قائم کرنا۔ قبضہ کرنا۔

تسلی - (ت۔س۔ل۔ج) (د۔ع۔۱۔مٹ) (۱) دلاسا۔ خاطر جمع۔ تسکین۔

تسلیم - (تس۔بیم) (د۔ع۔۱۔مٹ) (۱) سلام کرنا۔ (۲) سپرد کرنا۔ سونپنا (۳) قبول
 کرنا (۴) بندگی۔ آداب۔ کورنش۔ جمع: تسلیمات۔

تسلیم بجالانا - (۱) محاورہ سلام کرنا۔ آداب عرض کرنا۔

تسلیم عرض ہے - (۱) محاورہ سلام کرنا ہوں۔

تسلیم کرنا - (مٹ۔س۔ک۔ب) (۱) ماننا۔ قبول کرنا (۲) آداب بجالانا۔
 بندگی کرنا (۳) بڑے کو سلام کرنا۔

تسلیمات - (تس۔ل۔ج) (د۔ع۔۱۔مٹ) تسلیم کی جمع مکرار میں مفرد
 استعمال ہوتا ہے۔ آداب۔ بندگی۔ کورنش۔ سلام۔

تسلیم ورضا - (د۔ع۔۱۔مٹ) اپنے آپ کو خدا کے حوالے کرنا۔ اس
 کی رضا پر راضی رہنا۔

تسمہ - (تس۔م۔ف) (د۔ع۔۱۔مٹ) (۱) چمڑے کا پتلا۔ کم چوڑا اور لمبا ٹھٹھا (۲) جوتے
 یا بوٹ کا چمڑے کا نیتنا۔

تسمہ جمانا - (۱) محاورہ (تسے سے مارنا۔ (۲) بی لگانا۔ حسد لگانا۔

تسمہ کش - ٹھک۔ وہ شخص جو لوگوں کا گلا گھونٹ کر مار ڈالے۔

تسمہ کھینچنا - (۱) محاورہ (تسے سے گلا گھونٹ کر مارنا۔ پھانسی دینا۔

تسمہ لگانا نہ رکھنا - (۱) محاورہ (۱) صاف گردن اڑا دینا (۲) ذرا کسر رکھنا۔
 تسمہ لنگوٹا باندھنا - (۱) محاورہ (۱) فیر یا قلند بن جانا (۲) جوگی کا پیلا ہونا۔
 تسے کے واسطے بھینس مارنا - (۱) محاورہ (تھوڑی بات کے واسطے
 بہت نقصان کرنا۔

تسمیہ - (تس۔ب۔ی۔د۔ع۔۱۔مٹ) (۱) نام رکھنا (۲) بسم اللہ
 الرحمن الرحیم کہنا۔

تسمیہ خوانی - (د۔ع۔۱۔مٹ) بچے کو بسم اللہ کرانے کی تقریب۔

تسین - (ت۔س۔ن۔ج) (د۔ع۔۱۔مٹ) تسنی ہونا۔ تسنت کی پیروی کرنا۔

تسیم - (تس۔نیم) (د۔ع۔۱۔مٹ) بہشت کی ایک نہر کا نام۔

تسو - (تس۔سو) (د۔ع۔۱۔مٹ) ڈیڑھا سچ۔ کرنا جو بیسواں حصہ۔

تسوالتی - (تس۔دال۔سی۔د۔ع۔۱۔مٹ) بیوانسی کا بیسواں حصہ پکوانسی۔
 تسوید - (تس۔وید) (د۔ع۔۱۔مٹ) (۱) لکھنا۔ تحریر کرنا (۲) سیاہ کرنا سیاہی لگانا۔
 (۳) مسودہ تحریر کرنا۔ خاکہ تیار کرنا۔ جمع: تسویدات۔

تسوید - (تس۔وید) (د۔ع۔۱۔مٹ) برابر کرنا۔ سدھا کرنا۔ ٹھیک کرنا۔

تسہیل - (تس۔ہیل) (د۔ع۔۱۔مٹ) (۱) سہل کرنا۔ آسان کرنا (۲) سہولت۔
 آسانی۔ جمع: تسہیلات۔

ت۔ش

تس۔ (د۔س۔۱۔مٹ) (۱) تاج کا چھکا (۲) خشک جھوسہ۔

تثابہ - ات - رشابہ (دع - ۱ - مذ) مطابقت - مشابہت - یکسانی -
جمع: تثابہات -

تثابہ لگنا - (۱ - محاورہ) حافظ قرآن کا پڑھتے پڑھتے الفاظ یکساں ہونے کی صورت میں کچھ کچھ پڑھنا شروع کر دینا -

تثاقل - (ت - ثا - قل) (دع - ۱ - مذ) باہمی مشابہت - ہم شکل ہونا -

تثقیب - (ت - ثب - یب) (دع - ۱ - مذ) مانند ہونا - مثل ہونا - جمع: تثقیبات -

تثقیب - (تث - یب) (دع - ۱ - مذ) (۱) آگ روشن کرنا (۲) جڑائی کے زمانے کا ذکر کرنا - عاشقانہ مضامین بیان کرنا (۳) شعرا کی اصطلاح میں قصیدے کی ابتدا میں عاشقانہ مضامین نظم کرنا -

تثقیبہ - (تث - یب) (دع - ۱ - مذ) مشابہت دینا - تمثیل - ایک چیز کو دوسری چیز کے مانند بھرانا - جمع: تثقیبات -

تثت - (ت - ث - ت) (۱) تسلا - پرات - برتن - بڑا لگن (۲) پاخانے کا برتن - باط -

تثت ازبام ہونا - (۱ - محاورہ) (۱) مشہور ہونا - مشہر ہو جانا (۲) بدنام ہونا - رسوا ہونا (۳) ظاہر ہونا - کھل جانا - بھاڑ پھوٹنا -

تثت چوکی - (ت - ث - ت) (دع - ۱ - مذ) وہ چوکی اور وہ طشت جو امیروں کے زرخیزانے یا پانچانے میں رکھا جاتا ہے -

تثت (زر) زریں - (ت - ث - ت) (دع - ۱ - مذ) دکھنا - آفتاب - سورج -

تثت - (ت - ث - ت) (دع - ۱ - مذ) پرانگی - پریشانی - بے اطمینانی -

تثت - (ت - ث - ت) (دع - ۱ - مذ) گھبراہٹ -

تثیری - (تث - ی - ر) (دع - ۱ - مذ) چھوٹی رکابی -

تثیص - (تث - یص - ص) (دع - ۱ - مذ) اعتبار - متنازع ہونا - جمع: تثیصات -

تثیص - (تث - یص - ص) (دع - ۱ - مذ) (۱) جانتا - پہچانتا (۲) بھرانا - معین کرنا - مقرر کرنا (۳) مرض کا پہچاننا (۴) پہچان - شناخت -

تثیص (۵) جانچ - تجسس - جمع: تثیصات -

تثیص جمع بندی - (ت - ث - یص) (دع - ۱ - مذ) مال گزاری کی رقم کا معین کرنا -

تثیص ختام - (ت - ث - یص) (دع - ۱ - مذ) کچا اندازہ -

تثدو - (تث - د - و) (دع - ۱ - مذ) سختی - زیادتی - جبر -

تثدید - (تث - دید) (دع - ۱ - مذ) (۱) ایک جنس کے دو حرفوں کو ایک لگنا اور دو پڑسنا - جیسے تکلف کلام (۲) حرف مشدد کی علامت (۳)

تثدیج - (تث - دیج) (دع - ۱ - مذ) شرح کی پابندی - شرح کے مطابق کام کرنا -

تثدیج - (تث - دیج) (دع - ۱ - مذ) (۱) بخوبی بیان کرنا - شرح کرنا (۲) تفصیل - تفسیر - وضاحت (۳) بدن کے اعضاء کا علم - جسم کی بناوٹ کا بیان - جمع: تثدیجات -

تثدیج - (تث - دیج) (دع - ۱ - مذ) (۱) بخوبی بیان کرنا - شرح کرنا (۲) تفصیل - تفسیر - وضاحت (۳) بدن کے اعضاء کا علم - جسم کی بناوٹ کا بیان - جمع: تثدیجات -

تثدیج - (تث - دیج) (دع - ۱ - مذ) (۱) بخوبی بیان کرنا - شرح کرنا (۲) تفصیل - تفسیر - وضاحت (۳) بدن کے اعضاء کا علم - جسم کی بناوٹ کا بیان - جمع: تثدیجات -

تثدیج - (تث - دیج) (دع - ۱ - مذ) (۱) بخوبی بیان کرنا - شرح کرنا (۲) تفصیل - تفسیر - وضاحت (۳) بدن کے اعضاء کا علم - جسم کی بناوٹ کا بیان - جمع: تثدیجات -

تثدیج - (تث - دیج) (دع - ۱ - مذ) (۱) بخوبی بیان کرنا - شرح کرنا (۲) تفصیل - تفسیر - وضاحت (۳) بدن کے اعضاء کا علم - جسم کی بناوٹ کا بیان - جمع: تثدیجات -

تثدیج - (تث - دیج) (دع - ۱ - مذ) (۱) بخوبی بیان کرنا - شرح کرنا (۲) تفصیل - تفسیر - وضاحت (۳) بدن کے اعضاء کا علم - جسم کی بناوٹ کا بیان - جمع: تثدیجات -

تثدیج - (تث - دیج) (دع - ۱ - مذ) (۱) بخوبی بیان کرنا - شرح کرنا (۲) تفصیل - تفسیر - وضاحت (۳) بدن کے اعضاء کا علم - جسم کی بناوٹ کا بیان - جمع: تثدیجات -

تثدیج - (تث - دیج) (دع - ۱ - مذ) (۱) بخوبی بیان کرنا - شرح کرنا (۲) تفصیل - تفسیر - وضاحت (۳) بدن کے اعضاء کا علم - جسم کی بناوٹ کا بیان - جمع: تثدیجات -

تشریف آوری - (ت - ش - آ) (دع - ۱ - مذ) آنا - آمد -

تشریف ارزانی فرمانا - (۱ - محاورہ) کسی امیر اور بزرگ کا آنا - قدم رچنے فرمانا -

تشریف رکھنا - (۱ - محاورہ) (۱) بیٹھنا (۲) ٹھہرنا - قیام کرنا -

تشریف لے جانا - (۱ - محاورہ) رخصت ہونا - سدھارنا - جانا -

تشریفات - (تث - ری - ف) (دع - ۱ - مذ) تشریف کی جمع - عزتیں - شرف - خلعت -

تشریق - (ت - ش - یق) (دع - ۱ - مذ) عید قربان کے تین دن (ایام کے ساتھ) (۲) مشرق کی طرف جانا - مشرق کی طرف منہ کرنا - عید کی نماز پڑھنا -

تشریک - (تث - ریک) (دع - ۱ - مذ) (۱) شریک بنانا - साथی بنانا - (۲) شرکت - حصہ داری -

تشیط - (ت - ش - ط) (دع - ۱ - مذ) حد سے بڑھ جانا - حد سے گزر جانا -

تشنی - (ت - ش - نی) (دع - ۱ - مذ) تسلی - تسکین - دلچسپی - دھارس - اطمینان - لغوی معنی شفا چاہنا -

تشک - (ت - ش - ک) (دع - ۱ - مذ) (۱) شبہ کرنا (۲) شک - شبہ -

تشکل - (ت - ش - کل) (دع - ۱ - مذ) (۱) خوبصورت ہونا (۲) شکل پکڑنا - (۳) ترتیب اجزا و ہیئت - وضع (۴) علم ہیئت میں ستاروں کی مخصوص وضع و ترتیب - اجرام فلكی -

تشکیک - (تث - یک) (دع - ۱ - مذ) (۱) شک میں ڈالنا (۲) شک - شبہ - جمع: تشکیکات -

تشکیل - (تث - کیل) (دع - ۱ - مذ) (۱) شکل بنانا (۲) ساخت - ترکیب - بناوٹ - خاکہ بنانا - جمع: تشکیلات -

تشبا - (تث - نا - ا) (دع - ۱ - مذ) تشبیح کا بیگاڑا ہوا - طعنہ -

تشخ - (ت - ش - خ) (دع - ۱ - مذ) ایٹھن - جگر جانا - عضلات جسمانی کا کھینچنے لگنا -

تشگی - (تث - ن - گی) (دع - ۱ - مذ) (۱) پیاس (۲) شدت آرزو -

تشگہ - (تث - ن - گہ) (دع - ۱ - مذ) (۱) پیاسا - (۲) خواہش مند - جمع: تشگان -

تشہ - (تث - ہ - دل) (دع - ۱ - مذ) (۱) آرزو مند -

تشہ - (تث - ہ - دل) (دع - ۱ - مذ) (۱) آرزو مند -

تشہ - (تث - ہ - دل) (دع - ۱ - مذ) (۱) آرزو مند -

تشہ - (تث - ہ - دل) (دع - ۱ - مذ) (۱) آرزو مند -

تشہ - (تث - ہ - دل) (دع - ۱ - مذ) (۱) آرزو مند -

تشہ - (تث - ہ - دل) (دع - ۱ - مذ) (۱) آرزو مند -

تشہ - (تث - ہ - دل) (دع - ۱ - مذ) (۱) آرزو مند -

تشہ - (تث - ہ - دل) (دع - ۱ - مذ) (۱) آرزو مند -

تشہ - (تث - ہ - دل) (دع - ۱ - مذ) (۱) آرزو مند -

تشہ - (تث - ہ - دل) (دع - ۱ - مذ) (۱) آرزو مند -

تشہ - (تث - ہ - دل) (دع - ۱ - مذ) (۱) آرزو مند -

تشہ - (تث - ہ - دل) (دع - ۱ - مذ) (۱) آرزو مند -

تشہ - (تث - ہ - دل) (دع - ۱ - مذ) (۱) آرزو مند -

تصدیق - (تص۔یق) (رع۔ذمت) (۱) صداقت۔ سچ ہونے کی تائید (۲) ثبوت۔ اثبات (۳) منطوق کے چند تصورات کے ساتھ حکم کا نام جیسے حامد فیاض ہے۔ جمع: تصدیقات۔

تصدیق بلا تصور - (رع۔۱۔مت) پہلے ہی دل میں خیال بٹھا لینا۔ تصور پیش از وقوع۔

تصدیق نامہ - (ف۔۱۔ہذ) سند ساری ٹیکٹ۔

تصدیقی - (ت۔مد۔وی) (رع۔۱۔مت) درپیش ہونا۔ سامنے آنا۔

تصرف - (ت۔صرف) (رع۔۱۔ہذ) (۱) دخل دینا (۲) قبضہ تحت اختیار۔

(۳) صرف خرچ (۴) کچھ کالچہ کر دینا۔ اپنی طرف سے کچھ شامل کرنا یا بنا دینا (۵) فرق۔ عادت۔ کرامت (۶) استعمال۔ عمل (۷) غیر زبان کے لفظ میں کمی بیشی کر کے استعمال کرنا (۸) طاقت۔ اثر و رسوخ (۹) غبن۔

خیاثت۔ جمع: تصرفات۔

تصرف بیجا - (۱) ناجائز قبضہ (۲) غبن۔ تغلب (۳) خوردبرد۔

تصرف مختار - ناجائز قبضہ جو مجرم ہو کسی کی چیز بلا اجازت لے لینا۔

تصرف میں لانا - (۱) قبضے میں لانا۔ خرچ کرنا۔ صرف کرنا (۲) غبن کرنا

(۳) استعمال کرنا۔ مصرف میں لانا۔

تصرف میں ہونا - (۱) محاورہ استعمال میں ہونا۔

تصریح - (تص۔ریح) (رع۔۱۔مت) (۱) واضح کرنا۔ صاف طور پر بیان کرنا (۲) تشریح۔ شرح۔ تفصیل۔ توضیح۔ جمع: تصریحات۔

تصریف - (تص۔ریف) (رع۔۱۔مت) (۱) مصدر کی گردان (۲) پھیرنا۔ بدلا۔ جمع: تصاریف۔

تصعد - (تص۔عید) (رع۔۱۔مت) (۱) بلند ہونا۔ اونچی جگہ پر چڑھنا (۲) کسی دو کو آگ دے کر سرپوش پر بچھ کرنا۔

تصغیر - (تص۔غیر) (رع۔۱۔مت) (۱) چھوٹا کرنا (۲) تخفیف۔ قلیل

تصغیر - (تص۔غیر) (رع۔۱۔مت) (۱) صاف کرنا۔ واضح کرنا (۲) صفائی۔

ترقیہ نکوار۔ صلح (۳) بے باقی (۴) فیصلہ۔

تصغیر حساب - حساب کی صفائی۔

تصغیر طلب امور - وہ امور جن کا فیصلہ بھی کرنا ہو۔

تصغیر نامہ - (ف۔۱۔ہذ) فیصلے کی تحریر۔

تصلیب - (تص۔لیب) (رع۔۱۔مت) (۱) صلیب پر چڑھانا۔ سولی دینا (۲) صلیب کا نشان بنانا۔

تصمیم - (تص۔میم) (رع۔۱۔مت) (۱) خالص کرنا۔ مضبوط کرنا (۲) مضبوطی۔

تصنیع۔ جمع: تصمیات۔

تصنیع - (ت۔صن۔یع) (رع۔۱۔ہذ) (۱) بناوٹ۔ ساخت (۲) دکھلاوا۔ تکلف (۳) مکر۔ فریب (۴) تبدیل و تلبیس۔

تصنیف - (تص۔ینف) (رع۔۱۔مت) (۱) کتاب لکھنا۔ مضمون بنانا۔

طبیعت سے کوئی بات نکلانا (۲) ایجاد۔ بنانا ہوا۔

تصنیف را مصنف - نیکو کند بیان۔ مصنف ہی اپنی کتاب کو اپنی

طرح ادا کر سکتا ہے۔

تصور - (ت۔صو۔ور) (رع۔۱۔ہذ) (۱) دل میں تصویر بنانا (۲) دھیان مراقبہ۔

جمع: تشنعات۔

تشویش - (تش۔ویش) (رع۔۱۔مت) (۱) پریشانی۔ گھبراہٹ۔ بے چاری

بے چینی (۲) سوچ۔ فکر۔ تردد۔ جمع: تشویشات۔

تشویش میں پڑنا - (۱) محاورہ فکر میں ہونا۔ سوچ میں پڑنا۔

تشوین - (تش۔وین) (رع۔۱۔مت) (۱) شوق دلانا۔ اگسانا۔ اُبھارنا۔ (۲) شوق۔ رغبت۔

تشویہ - (تش۔ویہ) (رع۔۱۔ہذ) (۱) بھونا (۲) طب میں دوا کو گرم بھول

تیز میں بھلنا۔

تشہد - (ت۔ش۔ہد) (رع۔۱۔ہذ) کلمہ شہادت پڑھنا۔ جمع: تشہدات۔

تشہیر - (تش۔ہیر) (رع۔۱۔مت) (۱) مشہور کرنا۔ شہرت دینا۔ ڈھنڈورا

تینا۔ پیتنا (۲) بدنام کرنا۔ رسوا کرنا۔ جمع: تشہیرات۔

تشیع - (ت۔شی۔یع) (رع۔۱۔ہذ) (۱) اپنے آپ کو بوڑھا ظاہر کرنا۔

تشیع و بزرگی بنانا (۲) عزت یا وقار کا اظہار کرنا۔

تشیع۔ ات۔شی۔یع) (رع۔۱۔ہذ) شیعہ ہونا۔

ت۔ص

تصادم - (ت۔صا۔دم) (رع۔۱۔ہذ) باہم ٹکرانا۔ ٹکرا ہونا۔ دھکا لگنا۔

(۲) صدمہ دینا۔ جمع: تصادمات۔

تصاعد - (ت۔صا۔عد) (رع۔۱۔ہذ) (۱) چڑھنا۔ اوپر جانا (۲) مشکل ہونا۔

تصانف - (ت۔صا۔ینف) (رع۔۱۔مت) تصنیف کی جمع۔ تصنیفات

تصنیف کی ہوئی کتابیں۔

تصاویر - (ت۔صا۔ویر) (رع۔۱۔مت) تصویر کی جمع۔ تصویریں۔

تصحیح - (تص۔یح) (رع۔۱۔مت) (۱) صحیح کرنا۔ درست کرنا (۲) صحت۔

درستی۔ جمع: تصحیحات۔

تصویف - (تص۔حیف) (رع۔۱۔مت) (۱) کھینے میں عدا غلطی کرنا۔

تحریر کی غلطی (۳) الفاظ کے اعراب اس طرح بدل دینا کہ ان کا تلفظ

بہت مختلف ہو جائے۔

تصدق - (ت۔صد۔وق) (رع۔۱۔ہذ) (۱) صدقہ دینا۔ کوئی چیز وار کر

خیرات کرنا (۲) قربانی۔ صدقہ۔ خیرات (۳) صدقے۔ نثار (۴) بذلت

ظہنی۔ وجہ سے۔ جمع: تصدقات۔

تصدق اتارنا - (۱) محاورہ صدقہ اتارنا۔ بچاؤ کرنا۔

تصدق جانانا - (۱) محاورہ نثار ہونا۔ پیشہ جانا۔

تصدق کا تیل - تصدق کے ماس - (ہذ) یہ دو چیزیں عموماً

صدقہ دی جاتی ہیں۔

تصدق کرنا - (۱) محاورہ صدقہ کرنا۔ کوئی چیز وارنا۔ خیرات دینا۔

تصدق ہونا - (۱) محاورہ نثار ہونا۔ قربان ہونا۔

تصدیح - (تص۔یح) (رع۔۱۔مت) (۱) دردمس (۲) ڈکھ۔ تکلیف۔

تصدیغ - (تص۔یغ) (رع۔۱۔ہذ) تکلیف ڈکھ۔ زحمت۔

تصدیغ اٹھانا - (۱) محاورہ تکلیف اٹھانا۔ دردمس ہونا۔

تَضْحِیک - (تضیحیک) (ع۔ ا۔ ۱۔ ۱) (مث) (۱) ہنسی اُٹانا (۲) ہنسی۔ ٹھٹھا۔
 (۳) ذلت۔ رسوائی۔ جمع: تضحیکات۔
تَضَرُّع - (تضضر۔ رُوع) (ع۔ ا۔ ۱۔ ۱) (مث) (۱) رونا۔ گرا گڑانا (۲) منت سماجت
 جمع: تضرعات۔
تَضَعِیف - (تضعیف) (ع۔ ا۔ ۱۔ ۱) (مث) (۱) دو گنا کرنا (۲) افزوں کرنا۔
 زیادہ کرنا۔
تَضْمِین - (ع۔ ا۔ ۱۔ ۱) (مث) (۱) گراہی سے منسوب کرنا۔ گراہ قرار دینا۔
تَضْمِین - (تض۔ ین) (ع۔ ا۔ ۱۔ ۱) (مث) (۱) ملانا۔ شامل کرنا (۲) ضامن لینا۔
 ضمانت دینا (۳) اصطلاح شاعری میں دوسرے کے شعر پر تصریح
 یا بند لگانا۔ جمع: تضمینات۔
تَضِیع - (تض۔ یع) (ع۔ ا۔ ۱۔ ۱) (مث) (۱) ضائع کرنا۔ گنوانا۔
تَضِیع اوقات - (ع۔ ا۔ ۱۔ ۱) (مث) (۱) وقت گنوانا۔ عمر رائیگاں گزرنانا۔

ت — ط

تَطَابِق - (تط۔ ابقی) (ع۔ ا۔ ۱۔ ۱) (مث) (۱) مطابقت۔ مشابہت۔ یکسانی۔
 مناسبت۔ موافقت۔ میل۔ لگاؤ۔
تَطَاوُل - (تط۔ اول) (ع۔ ا۔ ۱۔ ۱) (مث) (۱) دست درازی (۲) علم جو
 ستم۔ جفا (۳) گھنڈ۔ عذو۔ سخت۔
تَطْبِیق - (تط۔ بقی) (ع۔ ا۔ ۱۔ ۱) (مث) (۱) مطابقت کرنا۔ مقابل کرنا۔ برابر کرنا۔
 (۲) میل۔ مطابقت۔ موافقت۔
تَطْوِیع - (تط۔ وویع) (ع۔ ا۔ ۱۔ ۱) (مث) (۱) ذریعے سے زیادہ کام کرنا۔
 ایسے حکم کی تعمیل کرنا جس کا کرنا فرض نہ ہو۔ مستحب تو اقل کا ادا کرنا۔
تَطْوِیل - (تط۔ ویل) (ع۔ ا۔ ۱۔ ۱) (مث) (۱) دراز کرنا۔ لمبا کرنا (۲) دیر لگانا۔
 (۳) لمبائی۔ وسعت (۴) دیر۔ التوا۔
تَطْهِیر - (تط۔ ہیر) (ع۔ ا۔ ۱۔ ۱) (مث) (۱) پاک کرنا (۲) تفتیح۔ تزکیہ (۳) پاکی۔
 ہمارت۔ جمع: تطہیرات۔

ت — ظ

تَطْهِیر - (تط۔ ہیر) (ع۔ ا۔ ۱۔ ۱) (مث) (۱) پاک کرنا (۲) تفتیح۔ تزکیہ (۳) پاکی۔
تَظْمِیم - (تظ۔ ظم) (ع۔ ا۔ ۱۔ ۱) (مث) (۱) علم و ستم کی فریاد کرنا (۲) فریاد (۳)
 نظم۔ جو۔ جفا۔

ت — ع

تَعَارُض - (تعارض) (ع۔ ا۔ ۱۔ ۱) (مث) (۱) ایک دوسرے کے مقابل ہونا۔
 آپس میں جھگڑنا (۲) برابری کرنا۔ جمع: تعارضات۔
تَعَارُف - (تعارف) (ع۔ ا۔ ۱۔ ۱) (مث) (۱) ایک دوسرے کو پہچاننا۔
 (۲) شناسائی۔ واقفیت۔ جہان پہچان۔ جمع: تعارفات۔

خیال۔ منصوبہ۔ سوچہ (۲) منطوق کی اصطلاح میں کسی چیز کی صورت کا حکم
 کے بغیر عقل میں آنا۔ جمع: تصورات۔
تَصَوُّر سے لڑ جانا۔ خیال کرنے سے ڈر جانا یا کانپ جانا۔
تَصَوُّف - (تص۔ ووف) (ع۔ ا۔ ۱۔ ۱) (مث) (۱) صوفیوں کا عقیدہ (۲) علم
 معرفت (۳) دل سے خواہشوں کو دور کر کے خدا کی طرف دھیان لگانا۔
 (۴) تزکیہ نفس کا طریقہ (۵) پشیمند پہننا
تَصَوِّیْب - (تص۔ ویب) (ع۔ ا۔ ۱۔ ۱) (مث) (۱) ٹھیک رکھنا۔ سچا کہنا۔
 (۲) منظوری۔ تصدیق۔
تَصَوِّیْب نامہ - (ع۔ ا۔ ۱۔ ۱) (مث) (۱) فیصلہ منظوری۔

تَصَوِّیْر - (تص۔ ویر) (ع۔ ا۔ ۱۔ ۱) (مث) (۱) صورت بنانا۔ صورت گری (۲) صورت
 روپ۔ نقشہ۔ بٹ۔ شبیہ۔ نقش۔ فوٹو (۳) (صفت) نہایت خوبصورت
 حسین۔ جمع: تصاویر۔
تَصَوِّیر آنکھوں کے تلے میں پھیرنا - (۱) محاورہ) ہر وقت کسی کا
 خیال، تصور یا دھیان رہنا۔

تَصَوِّیْر دین جانا - (۱) محاورہ) ہونا۔ (۲) بٹ بن جانا بے جس و
 حرکت ہو جانا۔ حیران ہو جانا۔ حیرت سے چپ ہو جانا۔
تَصَوِّیْر دینا - (۱) محاورہ) حیرت میں ڈال دینا۔ چپ کر دینا۔
تَصَوِّیْر خیالی - (تص۔ خیالی) (ع۔ ا۔ ۱۔ ۱) (مث) (۱) کسی کی شکل، جو خیال میں دکھائی دے۔
تَصَوِّیْر سکتی - (تص۔ سکتی) (ع۔ ا۔ ۱۔ ۱) (مث) (۱) فوٹو۔ فوٹو گراف۔ کیمرے سے لی ہوئی تصویر۔
تَصَوِّیْر (قالبی) (قالبین) - (تص۔ قالبین) (ع۔ ا۔ ۱۔ ۱) (مث) (۱) قالبین کے نقش و نگار (۲)
 مجازاً خاموش۔

تَصَوِّیْر کا ابرو - (تص۔ ابرو) (ع۔ ا۔ ۱۔ ۱) (مث) (۱) تصویر کا سایہ تصویر میں سائے کو ظاہر کرنا۔
تَصَوِّیْر کا دوسرا رُوح - (تص۔ روح) (ع۔ ا۔ ۱۔ ۱) (مث) (۱) تصویر کی دوسری طرف (۲) کسی چیز
 یا بابت کا دوسرا پہلو۔
تَصَوِّیْر کھودنا - (تص۔ کرب) (ع۔ ا۔ ۱۔ ۱) (مث) (۱) پھیر یا دھات پر تصویر کندہ کرنا۔
تَصَوِّیْر کھینچ دینا - (تص۔ کھینچ) (ع۔ ا۔ ۱۔ ۱) (مث) (۱) واقعات بتا دینا۔ اس طرح بیان کرنا کہ
 واقعات کا نقشہ سامنے آجائے۔

تَصَوِّیْر کھینچنا - (تص۔ کھینچنا) (ع۔ ا۔ ۱۔ ۱) (مث) (۱) نقشہ بنانا۔ فوٹو لینا۔
تَصَوِّیْر کی مخالفت - (تص۔ مخالفت) (ع۔ ا۔ ۱۔ ۱) (مث) (۱) نہایت خوبصورت۔ بے حد حسین۔
تَصَوِّیْر مٹی - (تص۔ مٹی) (ع۔ ا۔ ۱۔ ۱) (مث) (۱) مٹی کی صورتی۔ مٹی کا بٹ۔
تَصَوِّیْر لیکنا - (تص۔ لیکنا) (ع۔ ا۔ ۱۔ ۱) (مث) (۱) عوار پر تصویر لگانا۔
تَصَوِّیْر نیم رخ - (تص۔ نیم رخ) (ع۔ ا۔ ۱۔ ۱) (مث) (۱) ایک طرف سے لی ہوئی تصویر۔
 وہ تصویر جس میں چہرے کا ایک رخ آئے۔
تَصَوِّیْر (ہو جانا) ہو کر رہ جانا - (۱) محاورہ) حیران ہو جانا۔ چپ ہو جانا۔

ت — ض

تَضَاد - (تضاد) (ع۔ ا۔ ۱۔ ۱) (مث) (۱) ضد۔ مخالفت (۲) نظم یا شعر کی ایک
 صنعت جس میں مخالف الفاظ جمع کئے جاتے ہیں۔ جمع: تضادات۔
تَضَاعُف - (تضاعف) (ع۔ ا۔ ۱۔ ۱) (مث) (۱) دو گنا ہونا۔ دو چندان۔

تَعْدِير - (ت - ع - ذ - ر) (ع - ا - م) (۱) عذر پیش کرنا (۲) معذور رکھنا۔
تَعْرِض - (ت - ع - ر - ض) (ع - ا - م) (۱) سامنے آنا - پیش ہونا (۲) روکنا - مزاحمت کرنا (۳) مزاحمت - روک۔
تَعْرِف - (ت - ع - ر - ف) (ع - ا - م) (۱) شناخت کرنا (۲) بتانا - جتاننا۔
تَعْرِيب - (ت - ع - ر - ي - ب) (ع - ا - م) (۱) کسی غیر زبان کے لفظ کو عربی بنالینا۔
تَعْرِيف - (ت - ع - ر - ي - ف) (ع - ا - م) (۱) پھیرنا - گناے سے بات کہنا (۲) اعتراض۔
تَعْرِيف - (ت - ع - ر - ي - ف) (ع - ا - م) (۱) واقفیت کرنا - شناسائی کرنا (۲) واقفیت - شناسائی (۳) ثنا - مدح (۴) بیان کرنا - شرح کرنا۔
 کسی چیز کا حلیہ بیان کرنا - (۵) صفت - پیمان۔
تَعْرِيف **الْأَجْمَلِ بِالْأَجْمَلِ** - (ع - ا - م) (۱) کسی نامعلوم بات کو اس طرح جتاننا کہ سمجھ نہ آئے۔
تَعْرِيف **كُرْتَمَنْ سَوَكُنَا** - (ا - م - ع - ر) بہت زیادہ تعریف کرنا۔
تَعْرِيف **كَلَمَلِ** (باندھ دینا) باندھنا - (ا - م - ع - ر) بے انتہا تعریف کرنا۔
تَعْرِيفِي - (ت - ع - ر - ي - ف) (ع - ا - م) (۱) صفت قابل تعریف۔
تَعْرِيز - (ت - ع - ر - ي - ز) (ع - ا - م) (۱) عزت ہونا (۲) عزت - اعزاز۔
تَعْرِيزِيَت - (ت - ع - ر - ي - ت) (ع - ا - م) (۱) ماتم پر کسی مڑے کے سپانڈول سے اظہارِ عقیدت - برسا - نام۔
تَعْرِيزِيَتِ خَانَمَ - (ع - ا - م) (۱) ماتم پر کسی کے جگہ - ماتم کا گھر۔
تَعْرِيزِيَتِ نَامِرَ - (ع - ا - م) (۱) ماتم پر کسی کا خط۔
تَعْرِيزِيَتِ رُزْ - (ت - ع - ر - ي - ز) (ع - ا - م) (۱) سیاست - منرا - گوشمالی (۲) تینبیہ کرنا - سرزنش کرنا - جمع : تعزیرات۔
تَعْرِيزَات - (ت - ع - ر - ي - ات) (ع - ا - م) (۱) تعزیر کی جمع - سزائیں۔
تَعْرِيزَاتِ پَاكِسْتَان - (ع - ا - م) (۱) حکومت پاکستان میں مذکور قانونی سزائیں۔
تَعْرِيزِيَتِي - (ت - ع - ر - ي - ت) (ع - ا - م) (۱) صفت سزائے متعلق۔
تَعْرِيزِيَتِي كَارِرَوَانِي - (ع - ا - م) (۱) ایسی کارروائی، جو سزا دینے کے لئے کی جائے۔
تَعْرِيزِيَتِي - (ت - ع - ر - ي - ت) (ع - ا - م) (۱) موقوف کرنا - عہدے سے ہٹانا۔
تَعْرِيزِيَتِي - (ت - ع - ر - ي - ت) (ع - ا - م) (۱) ماتم پر کسی امام حسین اور اہل بیت علیہم السلام کی قبروں کی نقل جو محرم کے دنوں میں بطور یادگار کاغذ اور باس وغیرہ سے بناتے ہیں۔
تَعْرِيزِيَتِي اَلْهَيَا نَا - (ا - م - ع - ر) تعزیر کی کوکشت کرنا - ٹھنڈا کرنے یا دن کرنے کے لیے لے جانا۔
تَعْرِيزِيَتِي اَلْهَيَا نَا - (ا - م - ع - ر) (۱) تعزیر کا دن ہونا (۲) کسی مشورے اور بڑے آدمی کا سر جانا (۳) کوٹھی بیٹھ جانا - دیوالیہ بنانا۔
تَعْرِيزِيَتِي دَار - (ع - ا - م) (۱) صفت جو شخص تعزیر بنا کر رکھے یا خالے۔
تَعْرِيزِيَتِي دَارِي - (ت - ع - ر - ي - ت) (ع - ا - م) (۱) تعزیر بنانا اور ماتم وغیرہ کا انتظام کرنا۔

تَعَاقِب - (ت - ع - ا - ق - ب) (ع - ا - م) (۱) پیچھے جانا یا دوڑنا - پیچھا کرنا۔
تَعَال - (ت - ع - ا - ل) (ع - ا - م) (۱) بلند ہو - بزرگ ہو - برتر ہو۔
تَعَالِي - (ت - ع - ا - ل) (ع - ا - م) (۱) صفت بلند - برتر - عالی۔
تَعَالِي اللّٰه - (ت - ع - ا - ل) (ع - ا - م) (۱) اے خدا مے بزرگ و برتر۔
تَعَاوَن - (ت - ع - ا - و - ن) (ع - ا - م) (۱) ایک دوسرے کی مدد کرنا۔
تَعَب - (ت - ع - ب) (ع - ا - م) (۱) رنج و دکھ (۲) محنت - مشقت (۳) سختی - تکلیف (۴) تھکاوٹ - تکان - ماندگی۔
تَعَبِد - (ت - ع - ب - د) (ع - ا - م) (۱) عبادت کرنا - بندگی کرنا - پوجا کرنا (۲) عبادت - بندگی - پوجا - پرستش۔
تَعْبِير - (ت - ع - ب - ي - ر) (ع - ا - م) (۱) بیان کرنا - عبادت میں لانا (۲) خواب کا تفسیر بیان کرنا (۳) تشریح - توضیح - جمع : تعبیرات۔
تَعْبِير **كُرْتَمَنْ سَوَكُنَا** - (ا - م - ع - ر) (۱) مراد لینا - مراد رکھنا (۲) خواب کا تفسیر بتانا۔
تَعْبِيرِي - (ت - ع - ب - ي - ر) (ع - ا - م) (۱) خواب کا تفسیر بتانے والا۔
تَعْبِيَتِي - (ت - ع - ب - ي - ت) (ع - ا - م) (۱) آراستہ کرنا - سجانا (۲) پچی کاری کرنا - بڑانا (۳) کسی چیز کا کسی چیز میں اس طرح مل جانا کہ علیحدہ سے معلوم نہ ہو۔
تَعْبِيَتِي - (ت - ع - ب - ي - ت) (ع - ا - م) (۱) پھیلا - تیسر - حیرت - حیرانی۔
تَعْبِيَتِي - (ت - ع - ب - ي - ت) (ع - ا - م) (۱) جلدی کرنا - جلدی - جھگڑت۔
تَعْبِيَتِي - (ت - ع - ب - ي - ت) (ع - ا - م) (۱) صفت متعلق - تیزی سے۔
تَعْبِيَتِي تَار - وہ تاریخ عام تاروں کے مقابلے میں جلدی پھیلا جانے اور ہٹنا۔
تَعْبِيَتِي تَعْبِيَتِي - وہ ڈاک جو خاص ہر کار سے کے ذریعے سے بہت جلد پہنچی جاتا ہے۔
تَعْبِيَتِي مَرَا سَلَمَ - وہ مراسلہ جو بلاتا غیر فوراً بھیجا جائے۔
تَعْبِيَتِي اَد - (ت - ع - ا - د) (ع - ا - م) (۱) گنتی - شمار (۲) اندازہ - تخمینہ - مقدار۔
تَعْبِيَتِي رَت - (ت - ع - ر - ت) (ع - ا - م) (۱) تعداد میں زیادہ ہونا (۲) بہتات۔
تَعْبِيَتِي كُرْتَمَنْ سَوَكُنَا - (۳) اعداد گنتی پر ضرب دینا - بڑھنا۔
تَعْبِيَتِي اَز دَوَانِ - (ت - ع - ا - ز - د - و - ا - ن) (ع - ا - م) (۱) ایک وقت ایک سے زیادہ شایاں کرنا - چند زنی - چند شوئی۔
تَعْبِيَتِي شَوَهَرِي - (ت - ع - ا - ز - د - و - ا - ن) (ع - ا - م) (۱) ایک عورت کا ایک وقت کئی مردوں سے شادی کرنا - چند شوہری - (ہنگ) (Polygamy)
تَعْبِيَتِي - (ت - ع - ا - د) (ع - ا - م) (۱) حد سے بڑھ جانا (۲) غلظت - تم - پور جفا (۳) نا انصافی - ناتق۔
تَعْبِيَتِي - (ت - ع - ا - د) (ع - ا - م) (۱) درست کرنا ٹھیک کرنا۔
تَعْبِيَتِي اِرْكَان - (ت - ع - ا - د) (ع - ا - م) (۱) فقرہ میں ارکان نماز کا آہستہ آہستہ ٹھیک طور سے ادا کرنا۔
تَعْبِيَتِي - (ت - ع - ا - د) (ع - ا - م) (۱) فعل لازم کو متعدی بنانا۔
تَعْبِيَتِي - (ت - ع - ا - د) (ع - ا - م) (۱) عذر کرنا - حجت کرنا (۲) عذر - حجت۔
تَعْبِيَتِي - (ت - ع - ا - د) (ع - ا - م) (۱) کسی کام کا دستور ہونا۔
تَعْبِيَتِي - (ت - ع - ا - د) (ع - ا - م) (۱) عذاب کرنا - دکھ دینا۔

تعزیر نکالنا۔ دیکھ تعزیر اٹھانا۔

تعصبات (ت - ع - ص - ح - ذ) (۱) مشکل ہونا۔ دشوار ہونا۔

تعلیق (ت - ع - ش - ق) (۱) مشق۔ (۲) چاہ۔ عشق۔ پیار۔ محبت۔ پریم۔

تعلیق (۲) شوق۔ اشتیاق۔ تمنا۔ آرزو۔

تعصب (ت - ع - ص - ح) (۱) مذہب (۲) حمایت۔ طرف داری۔

تعمیر (ت - ع - ح - م - ی) (۱) بے جا حمایت۔ جمع۔ تعصبات۔

تعطیل (ت - ع - ط - ف) (۱) ہرمانی کرنا (۲) ہرمانی۔

تعطیل (ت - ع - ط - ح - ل) (۱) بے کار ہونا۔ خالی ہونا۔

تعطیل (ت - ع - ط - ی - ز) (۱) مٹا دینا (۲) خالی کرنا۔ سنان کرنا (۳) کام سے فارغ کرنا (۴) چھٹی۔ جمع: تعطیلات۔

تعطیل (عام) عامہ۔ ایسی چھٹی جو پورے ملک میں ہو۔ عام چھٹی۔

تعظیم (ت - ع - ط - ی - م) (۱) عزت۔ (۲) بڑا جاننا۔ عزت۔ حرمت۔ وقعت۔

توقیر۔ قدر و منزلت۔

تعظیم بجا لانا۔ (۱) محاورہ (۲) عزت کرنا (۳) آداب بجالانا۔

تعظیم آدینا۔ (۱) محاورہ کسی کے آنے پر کھڑے ہونا۔ استقبال کرنا۔

اسکھنا کہ بھٹانا (۲) سلامی آنا۔

تعظیم سے پیش آنا۔ (۱) محاورہ عزت کرنا۔ اخلاق سے ملنا۔

تعظیم کرنا۔ (۱) محاورہ (۲) عزت کرنا۔ آداب بجالانا (۳) سلامی آنا۔

تعفت (ت - ع - ف - ح) (۱) مذہب (۲) پارسی۔ پرہیزگاری۔ عفت۔

یہ (۲) دین داری۔

تعین (ت - ع - ی - ن) (۱) مذہب (۲) بدبو۔ حضورت۔

تعصب (ت - ع - ص - ح) (۱) مذہب (۲) پیچھا کرنا۔

تعصل (ت - ع - ص - ح) (۱) مذہب (۲) سوچنا۔ غور کرنا۔

تعقیب (ت - ع - ق - ی - ب) (۱) مذہب (۲) ناز پڑھنے کے بعد وظیفے کے لئے بیٹھنا۔ (۳) کسی چیز کو کسی چیز کے بعد کرنا۔

تعقید (ت - ع - ق - ی - د) (۱) مضبوط باندھنا۔ گرہ دینا (۲) پوشیدہ بات کہنا (۳) اصطلاح علم معانی میں الفاظ کا اپنے صحیح مقام سے

آنکے نیچے ہونا۔

تعقید لفظی (ت - ع - ق - ی - ل) (۱) مٹا دینا (۲) لفظوں کو آگے پیچھے کر دینا۔ جس سے معنی

سمجھنے میں وقت ہو۔

تعقید معنوی (ت - ع - ق - ی - م) (۱) مٹا دینا (۲) ایسا لفظ استعمال کیا جائے جس سے

یہ شاعر کی مراد کچھ اور ہو مگر مکمل استعمال میں کچھ اور معنی دے رہا ہو۔

تعلق (ت - ع - ل - ق) (۱) مذہب (۲) علاقہ۔ لگاؤ۔ مناسبت (۳) رشتہ داری

(۴) میلان۔ رحمان (۵) محبت (۶) سرکار۔ واسطہ (۷) ملازمت (۸) جانبدار۔ ملکیت (۹) آشنائی۔

تعلق خاطر (ت - ع - ل - ق) (۱) مذہب (۲) دل کا لگاؤ۔ میلان۔ طبع۔

تعلق دار (ت - ع - ل - ق) (۱) رشتہ دار (۲) دوست۔ میل جول رکھنے والا۔

تعلق داری (ت - ع - ل - ق) (۱) رشتہ۔ تعلق۔ دوستی۔ میل جول۔

تعلق رکھنا۔ (۱) محاورہ (۲) میل جول رکھنا (۳) علاقہ رکھنا۔ سرکار رکھنا۔

تعلق رہنا۔ (۱) محاورہ (۲) محبت رہنا۔ الفت رہنا (۳) دوستی رہنا۔

تعلق منقطع ہونا۔ (۱) محاورہ (۲) دوستی جاتی رہنا۔ تعلق چھوٹ جانا۔

تعلق نا جا کر۔ (ت - ع - ص - ح) (۱) محاورہ (۲) دوستی جاتی رہنا۔ تعلق چھوٹ جانا۔

تعلق (ت - ع - ل - ق) (۱) محاورہ (۲) علاقہ۔ جاگیر۔ جمع: تعلقات۔

تعلق (۲) آشنائی ہونا۔ آنکھ لڑ جانا۔

تعلقات (ت - ع - ل - ق) (۱) مذہب (۲) تعلق کی جمع۔ واسطہ مراسم۔

تعلقات اچھے ہونا۔ (۱) محاورہ (۲) یارانہ ہونا۔ آپس میں الفت۔

تعلقہ (ت - ع - ل - ق) (۱) مذہب (۲) ملکیت۔ جانبدار (۳) صوبے کا

ایک حصہ۔ ضلع (۴) زمینداری۔ علاقہ۔ جاگیر۔ جمع: تعلقات۔

تعلقہ دار۔ وہ رئیس جو زمینداری میں حق اعلیٰ رکھتے تھے۔

جاگیر دار۔ زمیندار۔

تعلقہ داری۔ زمینداری میں حق اعلیٰ رکھنا۔

تعلل (ت - ع - ل - ق) (۱) مذہب (۲) دل بھلانا (۳) وقت گزارنا۔

تعلیم (ت - ع - ل - م) (۱) مذہب (۲) علم پڑھنا۔ سیکھنا۔

تعلیمی (ت - ع - ل - م) (۱) مذہب (۲) علمی۔ بزرگی۔

تعلیمی (ت - ع - ل - م) (۱) مذہب (۲) علمی۔ بزرگی۔

تعلیمی (ت - ع - ل - م) (۱) مذہب (۲) علمی۔ بزرگی۔

تعلیمی (ت - ع - ل - م) (۱) مذہب (۲) علمی۔ بزرگی۔

تعلیمی (ت - ع - ل - م) (۱) مذہب (۲) علمی۔ بزرگی۔

تعلیمی (ت - ع - ل - م) (۱) مذہب (۲) علمی۔ بزرگی۔

تعلیمی (ت - ع - ل - م) (۱) مذہب (۲) علمی۔ بزرگی۔

تعلیمی (ت - ع - ل - م) (۱) مذہب (۲) علمی۔ بزرگی۔

تعلیمی (ت - ع - ل - م) (۱) مذہب (۲) علمی۔ بزرگی۔

تعلیمی (ت - ع - ل - م) (۱) مذہب (۲) علمی۔ بزرگی۔

تعلیمی (ت - ع - ل - م) (۱) مذہب (۲) علمی۔ بزرگی۔

تعلیمی (ت - ع - ل - م) (۱) مذہب (۲) علمی۔ بزرگی۔

تعلیمی (ت - ع - ل - م) (۱) مذہب (۲) علمی۔ بزرگی۔

تعلیمی (ت - ع - ل - م) (۱) مذہب (۲) علمی۔ بزرگی۔

تعلیمی (ت - ع - ل - م) (۱) مذہب (۲) علمی۔ بزرگی۔

تعلیمی (ت - ع - ل - م) (۱) مذہب (۲) علمی۔ بزرگی۔

تعلیمی (ت - ع - ل - م) (۱) مذہب (۲) علمی۔ بزرگی۔

تعلیمی (ت - ع - ل - م) (۱) مذہب (۲) علمی۔ بزرگی۔

تعلیمی (ت - ع - ل - م) (۱) مذہب (۲) علمی۔ بزرگی۔

تعلیمی (ت - ع - ل - م) (۱) مذہب (۲) علمی۔ بزرگی۔

تعلیمی (ت - ع - ل - م) (۱) مذہب (۲) علمی۔ بزرگی۔

تعلیمی (ت - ع - ل - م) (۱) مذہب (۲) علمی۔ بزرگی۔

تفرقہ (اندازی) - پروازی - رع - ف - ۱ - سنٹ بھوٹ یا بھلائی ڈالنے کا فعل
تفرقہ ڈالنا - (۱) محاورہ، مخالفت کرنا، بھوٹ ڈالنا - (۲) نکرنا، فساد کرنا -
تفریح - (تف - ریح) رع - ۱ - مٹ (۱) غم دور کرنا (۲) دل لگی خوش طبعی -

(۳) ہوا خوری - میر دل بھلانا (۴) تازگی - فرحت -
تفریح طبع - رع - ۱ - صفت دل بھلاوا - خوشی - دل لگی - مہنی -
تفریحی - (تف - ری - جن) رع - ۱ - از روئے تفریح - مہنی سے - مذاق - دل لگی سے -
تفرید - (تف - برد) رع - ۱ - مٹ (۱) اکیلا رہ جانا - تنہا رہنا (۲) کسی
 بات میں فرد ہونا -

تفریس - (تف - ریس) رع - ۱ - مٹ (۱) بھاڑنا (۲) غیر زبان کے لفظ کو
 فارسی بنانا -

تفریط - (تف - ریط) رع - ۱ - مٹ (۱) کمی کرنا - غفلت کرنا - کوتاہی -
 (۲) کسی کام میں کمی کرنا -

تفریق - (تف - ریق) رع - ۱ - مٹ (۱) جدا کرنا - فرق ڈالنا (۲) جدائی -
 (۳) علیحدگی (۴) کسی بڑے عدد میں سے چھوٹے عدد کو کھٹکانا (۵) تیز -
 اٹھانا (۶) قانون، بیانی - بانٹ - جمع : تفریق -

تفریق نامہ - (۱) دستاویز جس میں ہر فریق کے حصے درج ہوں -
 (۲) اقرار نامہ - جو ان حصوں کا فیصلہ کرے - جن کا مختلف اشخاص
 نے دعویٰ کیا ہے -

تفسدہ - (تف - ہی - دہ) ف - ۱ - صفت گرم - جلا ہوا -
تفسیر - (تف - سیر) رع - ۱ - مٹ (۱) تشریح - تفصیل - توضیح - وضاحت -
 تفسیر شرح کرنا - سمجھانا (۲) اصطلاحاً قرآن شریف کی شرح - جمع : تفسیر

تفسیر دال - رع - ۱ - مذ علم تفسیر کا جاننے والا -
تفسیر کرنا - (۱) اصل مرکب، واضح طور پر بیان کرنا - کھول کر بیان کرنا -
تفصیل - (تف - صیل) رع - ۱ - مٹ (۱) جدا جدا کرنا - بیان کرنا (۲) تشریح -
 توضیح (۳) فہرست - فرد (۴) کیفیت - بیان - تذکرہ -

تفصیل دار - رع - ۱ - مذ مفصل طریقے سے -
تفصیلاً - (تف - می - لن) رع - ۱ - مفصل طور پر - وضاحت سے -

تفصیلی - (تف - می - لی) رع - ۱ - صفت مفصل - تشریح -
تفضل - (تف - فضل) رع - ۱ - مذ (۱) زیادتی - مہنی (۲) برتری -
تفضیلت (۳) مہربانی - عنایت - کھف - گرم - کوئی مفاد پہنچانا -

تفضیح - (تف - ضیح) رع - ۱ - مٹ (۱) رسوائی - بدنامی - فضیلت سے عزتی -
تفضیل - (تف - ضیل) رع - ۱ - مٹ (۱) ترجیح دینا - فوقیت دینا - فضیلت لینا
تفضیل بعض - رع - ۱ - ف - ۱ - مٹ (۱) بعض پر ترجیح دینا - صفت کی وہ
 قسم جس میں موصوف کو بعض پر فضیلت دی جائے جیسے خوش تر زیادہ تر

تفضیل کل - رع - ۱ - مٹ (۱) سب پر فوقیت دینا - صفت کی وہ قسم
 جس میں موصوف کو سب پر ترجیح دی جائے جیسے بہترین - سب اچھا -
تفضیل نسبی - رع - ۱ - ف - ۱ - مٹ (۱) ذاتی فضیلت - صفت کی وہ قسم جس
 پر دوسرے موصوف کی صرف صفت بیان کی جائے کسی پر ترجیح دینا جیسے

تفقہ - (تف - فح) رع - ۱ - مذ (۱) مہربانی - دلجوئی (۲) تلاش - جستجو -
تفہم - (تف - فہ) رع - ۱ - مذ (۱) علم فقہ جانشا (۲) علم گند ہونا -

تغیرات - (ت - عی - ی - رات) رع - ۱ - مذ (تغیر کی جمع - تبدیلیاں -
تغیرات ہر سالہ - ایک کتاب جو تحصیلدار کے پاس رہتی ہے
 اقد جس میں ہر سال کے تغیرات مثلاً غنبروں کا داخل خارج وغیرہ
 لکھے جاتے ہیں -
تغیر - (تغ - سیر) رع - ۱ - مٹ (۱) حالت بدل دینا -

ت - ف

تف - ف - ۱ - مذ (۱) بخارات - بھاپ - دھواں (۲) گرمی -
تف - (تف - عا) رع - ۱ - لعاب دہن - تھوک (۲) گنہ گنہ - لعنت - ملامت
تف نہ کرنا - (۱) محاورہ، پروا نہ کرنا - ادنیٰ توجہ بھی نہ کرنا -

تف سے تیری اوقات پر - (۱) محاورہ، لعنت ہے تیرے اطوار پر -
تفاخر - (تف - فا - خر) رع - ۱ - مذ (۱) ڈینگ مارنا - فخر جتانا - مزور کرنا -
 اپنے آپ کو بڑا سمجھنا (۲) مزور - فخر -

تفاریق - (تف - فاریق) رع - ۱ - مٹ (۱) تفریق کی جمع - جدائیاں - تفرقے -
 فرق (۲) وقفے (۳) قطعیں -

تفاس - (تف - فاس) رع - ۱ - مٹ (۱) تلاش - تحقیق -
تفاسیر - (تف - فاسیر) رع - ۱ - مٹ (۱) تفسیر کی جمع - تفسیریں -
تفاصیل - (تف - فاصیل) رع - ۱ - مذ (۱) تفصیل کی جمع - تفصیلات -

تفاوت - (تف - فا - وت) رع - ۱ - مذ (۱) فاصلہ - دوری - فرق (۲) جدائی -
تفاوت ہونا - (۱) محاورہ، (۲) جدا ہونا علیحدہ ہونا (۲) فرق ہونا -

تفاوت ل - (تف - فا - ل) رع - ۱ - مذ (۱) فال نکالنا - شگون لینا -
تفتہ - (تف - تہ) ف - ۱ - صفت (۱) بہت گرم (۲) جلا جھٹا (۳) بے قرار -
 مضطرب (۴) مردار ہوا - پیچیدہ (۵) عاشق -

تفتہ جان - لفتہ جگر - لفتہ دل - (۱) سوختہ جگر - دل جلا
 (۲) اشتیاق سے جلا ہوا -
تفتیدہ - (تف - بی - دہ) ف - ۱ - صفت (۱) جو چیز آفتاب یا آگ سے گرم
 ہوتی ہے -

تفتیش - (تف - تیش) رع - ۱ - مٹ (۱) چھان بین - کھوج - تحقیقات -
 پوچھ پاچھ - اردو میں عام طور پر پولیس کی دریافت کے متعلق استعمال
 ہو رہا ہے -

تفحص - (تف - فح - ض) رع - ۱ - مذ جستجو - تلاش - ٹوہ - ڈھونڈ -
 جمع : تفحصات -

تفریح - (تف - فریح) رع - ۱ - مذ (۱) کشائش - خوشحالی (۲) سیر تماشا
 تفریح - دل لگی -

تفرقہ - (تف - ری - تم) رع - ۱ - مذ (۱) دو چیزوں میں فرق آنا (۲) فرق -
 اختلاف (۳) جدائی - فاصلہ - علیحدگی (۴) بھوٹ - نا اتفاقی -

تفرقہ اٹھ جانا - (۱) محاورہ، کوئی فرق نہ رہنا -
تفرقہ (انداز) پروا رع - ف - ۱ - صفت بھوٹ یا بھلائی ڈالنے والا
 عموماً آسمان کی صفت میں آتا ہے -

تقاظرت - (ت - ق - ظ - ر) (ع - ا - مذ) یونان نامدی سے درلے قطرے کرنا۔
تقاطع - (ت - ق - ا - ط - ع) (ع - ا - مذ) منقطع ہونا۔ دو خطوط کا ایک دوسرے کو کاٹنا۔
تقاوی - (ت - ق - ا - و - ی) (ع - ا - مذ) (۱) قوت دینا (۲) وہ روپیہ جو سرکار کی طرف سے زراعت کے لیے بطور امداد کا ستکاروں کو دیا جاتا ہے۔
تقاویم - (ت - ق - ا - و - ی - م) (ع - ا - مذ) وقت تقویم کے جمع اجزیاں۔
تقییل - (ت - ق - ی - ی - ل) (ع - ا - مذ) چومنا۔ بوسہ دینا۔
تقدیس - (ت - ق - د - ی - س) (ع - ا - مذ) پاکیزگی۔ پاکی۔
تقدیس باب - (ع - ص) پاکیزہ باب۔ بزرگ۔ برہمن گار آدمی کیلئے استعمال ہوتا ہے۔
تقدم - (ت - ق - د - م) (ع - ا - مذ) (۱) آگے بڑھنا۔ پیش قدمی (۲) پہلے ہونا۔ (۳) فوقیت (کسی سے زمانے۔ سلسلے۔ اہمیت میں) مقدم ہونا۔
تقدیر - (ت - ق - د - ی - ر) (ع - ا - مذ) (۱) اندازہ۔ مقدار۔ قسمت۔ مقسوم۔ وہ اندازہ جو حق تعالیٰ نے روزِ ازل ہر چیز کے لئے مقرر کر دیا ہے نصیب۔ نکت۔ مقرر۔
تقدیر آزمانا - (ع - ا - مذ) (۱) تقدیر کے ہمو سے پرکونی کام کرنا۔ بخت آزمانا۔
تقدیر الٹنا - تقدیر بگڑنا۔ تقدیر پلٹنا۔ (ع - ا - مذ) (۱) مقرر کارگشتہ ہونا۔
تقدیر عیال - عیال کا موافق نہ رہنا۔
تقدیر اور کجی جگہ لڑنا - (ع - ا - مذ) (۱) امیر گھر میں شادی ہونا۔
تقدیر پڑھوڑنا - (ع - ا - مذ) (۱) کسی معاملے میں کوشش نہ کرنا۔ راضی نہ رہنا۔ خدا ہونا۔
تقدیر پھرنا - (ع - ا - مذ) (۱) اقبال نہ رہنا (۲) با اقبال ہونا۔ بھلے دن آنا۔
تقدیر چھوٹ جانا - (ع - ا - مذ) (۱) تقدیر کا بگڑ جانا (۲) بڑی جگہ شادی ہونا (۳) معاملہ غراب ہو جانا۔ مقدمہ بگڑ جانا۔
تقدیر (جالنا) جگنا - (ع - ا - مذ) (۱) وقت کا موافق ہونا۔ بھلے دن آنا۔ بخت یاد ہونا۔
تقدیر سو جانا - (ع - ا - مذ) (۱) عیال کی قسمت کا موافق ہونا۔
تقدیر سے خوش قسمتی - خوش قسمتی سے۔ اتفاقیہ۔
تقدیر سے زور نہیں چلتا - (ع - ا - مذ) (۱) مقولہ۔ قسمت میں جسے وہی ہوگا۔ تدبیر سے آدمی بڑی بات کو روک نہیں سکتا۔
تقدیر سیدھی ہونا - (ع - ا - مذ) (۱) عیال کی قسمت یاد ہونا۔ بھلے دن آنا۔
تقدیر کا بندرا - (ع - ا - ص) نصیبوں کا لکھی۔ نوشتہ تقدیر۔
تقدیر کا برگشتہ ہونا - (ع - ا - مذ) (۱) تقدیر کا الٹ جانا۔ دقت پھر جانا۔
تقدیر کا پل - (ع - ا - مذ) (۱) قسمت کا پھیر۔ تقدیر کی بڑائی۔
تقدیر کا نکل جانا - (ع - ا - مذ) (۱) بگڑتی دُور ہونا۔ برے دن نکل جانا۔
تقدیر کا بٹک کھانا - (ع - ا - مذ) (۱) اچھی سے بڑی یا بڑی سے اچھی حالت ہو جانا۔
تقدیر کا پھیر - (ع - ا - مذ) (۱) عیال کی قسمت کا پھیر۔ بد نصیبی۔
تقدیر کا آئین پکڑنا - (ع - ا - مذ) (۱) عیال کی قسمت پر چھوڑنا۔
تقدیر کا ڈھنی - (ع - ا - ص) خوش قسمت شخص۔ مناسب نصیب۔
تقدیر کا سکندر - (ع - ا - ص) نہایت خوش قسمت۔ بہت خوش اقبال۔

تفکر - (ت - ف - ک - ر) (ع - ا - مذ) سوچ بچار۔ فکر۔ اندیشہ۔ جمع تفکرات۔
تفلیہ - (ت - ف - ل - ی - ہ) (ع - ا - مذ) پھیل کھانا۔ میوہ کھانا۔ ٹٹف۔ مزہ۔
تفنگ - (ت - ف - ن - گ) (ع - ا - مذ) (۱) ایک لمبی نالی جس میں سے پھونک کے ذریعے تیر یا کنگر پھینکتے ہیں (۲) جوانی بندوق۔ توڑے دار بندوق۔
تفنگ انداز - (ت - ف - ن - گ) (ع - ا - ص) (۱) تفنگ کے استعمال کا ماہر۔ تیر انداز۔ (۲) بندوق چلانے والا (۳) وہ ناصحلہ جہاں تک تیر کنگر یا پھیرا جیتے۔
تفنگ کا سالہ - (ت - ف - ن - گ) (ع - ا - مذ) وہ مقام جہاں بندوق کا گھوڑا گرتا ہے۔
تفنگ کا توپنا - (ت - ف - ن - گ) (ع - ا - مذ) توڑے دار بندوق کا وہ پڑزہ جس میں فیتہ رکھ کر بارود کو آگ دیتے ہیں۔
تفنگچی - (ت - ف - ن - گ) (ع - ا - مذ) (۱) بندوق چلانے والا۔
تفنن - (ت - ف - ن - ن) (ع - ا - مذ) (۱) طرح طرح کا ہونا۔ رنگ رنگ کا ہونا (۲) چہل۔ دل لگی۔ خوش طبعی۔ ہنسی مذاق۔
تفنن طبع - (ت - ف - ن - ن) (ع - ا - مذ) ہنسی۔ دل لگی۔ تقریبی مشغلہ۔
تفوق - (ت - ف - و - ق) (ع - ا - مذ) برتری۔ فوقیت۔ فضیلت۔ بڑائی۔
تفویض - (ت - ف - و - ی - ض) (ع - ا - مذ) سپردگی۔ حوالگی۔ تحویل۔ جمع تفویضات۔
تفہم - (ت - ف - ہ - م) (ع - ا - مذ) (۱) خود سمجھنا (۲) سمجھ۔ عقل۔ فہم۔ جمع تفہمات۔
تفہیم - (ت - ف - ہ - ی - م) (ع - ا - مذ) سمجھانا۔ جمع تفہیمات۔

ت - ق

تقابل - (ت - ق - ا - ب - ل) (ع - ا - مذ) مقابلہ۔ آمنے سامنے کھڑے ہونا۔
تقارب - (ت - ق - ا - ر - ب) (ع - ا - مذ) (۱) باہم قریب ہونا۔ پاس پاس ہونا (۲) علم و عروج کی ایک بجز کا نام۔
تقارب - (ت - ق - ا - ر - ب) (ع - ا - مذ) (۱) قریب کی جمع۔ موقعے پر میں۔
تقاریر - (ت - ق - ا - ر - ی - ر) (ع - ا - مذ) (۱) تقریر کی جمع۔ تقریریں۔ بیانات۔
تقاضا - (ت - ق - ا - ض - ا) (ع - ا - مذ) (۱) طلب۔ تاکید۔ تشدد۔ بلوٹا دیا ہوا قرض واپس مانگنے کے متعلق استعمال ہوتا ہے (۲) خواہش ضرورت یا احتیاج (۳) قانون۔ دعوے کا مطالبہ۔
تقاضا آرتنا - (ع - ا - مذ) (۱) عیال کی ضرورت یاد ہونا یا فعل کیا جانا۔ جس کے لئے اصرار ہو۔
تقاضا اٹھانا - (ع - ا - مذ) (۱) عیال کی ضرورت کے لئے غصہ کرنا۔
تقاضا کرنا - (ع - ا - ص) (۱) مطالبہ کرنا۔
تقاضائے بشریت - (ع - ا - مذ) (۱) انسانی ضرورت یا احتیاج۔
تقاضائے (سن) عمر - (ع - ا - مذ) عمر کی ضرورت کے لئے غصہ۔
تقاضائے وقت - (ع - ا - ص) (۱) وقت اور زمانے کے مناسب۔
تقاضے کا حق بھی نہیں پایا جانا - (ع - ا - ص) (۱) جس بات میں ذرا بھی جھگڑا ہو۔ وہ نہیں کرتی چاہئے۔ قرض بالکل نہیں لینا چاہئے۔

تقریب - (ت - قرُوب) (ع - ا - ۱ - مذ) (۱) نزدیکی ٹھونڈنا (۲) نزدیکی۔
تقریب - جمع : تقریبات۔
تقرر - (ت - قر - رُ) (ع - ا - ۱ - مذ) (۱) مقرر کرنا۔ تعین (۲) لازم ہونا (۳) ملازمت۔ نوکری۔
تقریب - (تق - ریب) (ع - ا - ۱ - مث) (۱) قریب کرنا۔ نزدیک آنا (۲) باعث۔ سبب۔ وجہ (۳) شادی۔ بیاہ یا اور کوئی رسم۔ جب رشتے دار جمع ہوں (۴) مطلب۔ مقصد (۵) ملاقات کا ذریعہ نکالنا (۶) ذکر۔ تذکرہ (۷) موقع۔ محل (۸) قرابت پنہنچ۔ رسائی (۹) قرینہ۔ قیاس۔ امتحان
تقریباً - (تق - ری - بن) (ع) گھیننا۔ قریب قریب۔
تقریبات - (تق - ری - بات) (ع - ا - ۱ - مث) (۱) تقریب کی جمع۔ رسوم۔ اجتماعات
تقریر - (تق - ریر) (ع - ا - ۱ - مث) (۱) بیان۔ ذکر۔ گفتگو۔ بات (۲) بحث۔ مباحثہ۔ محبت (۳) وعظ۔ تذکرہ۔ جمع : تقریرات۔
تقریر کا شہد و شکر ہونا - (۱) صفت۔ نہایت شہر میں اور ضلع گفتگو ہونا
تقریر کا لکھا ہوا ہونا - (۱) محاورہ۔ نہایت شہر اور ضلع اور گفتگو ہونا
تقریر کرنا - (۱) محاورہ۔ (۲) باتیں ہونا (۳) محبت ہونا۔
تقریر کا شہد ہونا - (۱) محاورہ۔ (۲) شادی ہو جانا۔
تقریر کھوئی ہونا - (۱) محاورہ۔ قسمت بُری ہونا۔ بد قسمت ہونا۔ بد نصیب ہونا۔
تقریر کی یاد دہی - نصیب کی امداد۔ خوش قسمتی۔
تقریر کے آگے تدبیر نہیں چلتی - (مثل) قسمت خراب ہو تو اس کا کوئی علاج نہیں۔
تقریر کے نلکے کو کون مٹوے - (مثل) تقریر بدل نہیں سکتی۔ جو قسمت میں لکھے سے مزور ہو کر رہتا ہے۔
تقریر کے ہاتھ بات ہے - (۱) محاورہ۔ جو ہونا ہے وہ ہوگا۔ معاصر خدا کے سپرد ہے۔
تقریر لڑنا - (۱) محاورہ۔ قسمت کا سازگار ہونا۔ تقریر کا موافق آنا۔
تقریر موافق ہونا - (۱) محاورہ۔ محبت یا اور ہونا۔
تقریر میں لکھا ہونا - (۱) محاورہ۔ قسمت میں ہونا۔
تقریر میں لکھنا - (۱) محاورہ۔ خدا کا مقدر کرنا۔
تقریر والا - (۱) صفت۔ خوش نصیب۔
تقریر یا اور ہونا - (۱) محاورہ۔ قسمت مددگار ہونا۔
تقریر نہیں چلی - (۱) محاورہ۔ قسمت میں اسی طرح لکھا تھا نقصان کے سونچ پر تسلی کے لیے کہتے ہیں۔
تقریری - (تق - ری) (ع - ف - صفت) تقریر کے متعلق۔ قسمت کا۔
تقریری (امر) معطلہ - ہونی۔ ہونے والی بات۔ وہ بات جس میں تدبیر کو دخل نہ ہو اور ضرور پوری ہو کر رہے۔
تقریس - (تق - ریس) (ع - ا - ۱ - مث) (۱) پاکیزگی۔ پاک۔ تقدس۔
تقریس و تمیید - (ع - ا - ۱ - مث) (۱) خدائی پالی میان کرنا۔ حمد کرنا۔
تقدیم - (تق - دیم) (ع - ا - ۱ - مث) (۱) پیش کرنا (۲) مقدم گھننا (۳) ترجیح۔
تقدیم و قیمت - (۲) پیش قدمی (۵) آگے چھینا (۶) افضلیت۔ مقدم ہونا۔
تقدیم و تاخیر - (۱) پہلے کہنے کو پہلے اور پچھے کہنے کو پچھے کر دینا (۲) آگے چلے کرنا۔

تقریب - (ت - قرُوب) (ع - ا - ۱ - مذ) (۱) نزدیکی ٹھونڈنا (۲) نزدیکی۔
تقریب - جمع : تقریبات۔
تقرر - (ت - قر - رُ) (ع - ا - ۱ - مذ) (۱) مقرر کرنا۔ تعین (۲) لازم ہونا (۳) ملازمت۔ نوکری۔
تقریب - (تق - ریب) (ع - ا - ۱ - مث) (۱) قریب کرنا۔ نزدیک آنا (۲) باعث۔ سبب۔ وجہ (۳) شادی۔ بیاہ یا اور کوئی رسم۔ جب رشتے دار جمع ہوں (۴) مطلب۔ مقصد (۵) ملاقات کا ذریعہ نکالنا (۶) ذکر۔ تذکرہ (۷) موقع۔ محل (۸) قرابت پنہنچ۔ رسائی (۹) قرینہ۔ قیاس۔ امتحان
تقریباً - (تق - ری - بن) (ع) گھیننا۔ قریب قریب۔
تقریبات - (تق - ری - بات) (ع - ا - ۱ - مث) (۱) تقریب کی جمع۔ رسوم۔ اجتماعات
تقریر - (تق - ریر) (ع - ا - ۱ - مث) (۱) بیان۔ ذکر۔ گفتگو۔ بات (۲) بحث۔ مباحثہ۔ محبت (۳) وعظ۔ تذکرہ۔ جمع : تقریرات۔
تقریر کا شہد و شکر ہونا - (۱) صفت۔ نہایت شہر میں اور ضلع گفتگو ہونا
تقریر کا لکھا ہوا ہونا - (۱) محاورہ۔ نہایت شہر اور ضلع اور گفتگو ہونا
تقریر کرنا - (۱) محاورہ۔ (۲) باتیں ہونا (۳) محبت ہونا۔
تقریر کا شہد ہونا - (۱) محاورہ۔ (۲) شادی ہو جانا۔
تقریر کھوئی ہونا - (۱) محاورہ۔ قسمت بُری ہونا۔ بد قسمت ہونا۔ بد نصیب ہونا۔
تقریر کی یاد دہی - نصیب کی امداد۔ خوش قسمتی۔
تقریر کے آگے تدبیر نہیں چلتی - (مثل) قسمت خراب ہو تو اس کا کوئی علاج نہیں۔
تقریر کے نلکے کو کون مٹوے - (مثل) تقریر بدل نہیں سکتی۔ جو قسمت میں لکھے سے مزور ہو کر رہتا ہے۔
تقریر کے ہاتھ بات ہے - (۱) محاورہ۔ جو ہونا ہے وہ ہوگا۔ معاصر خدا کے سپرد ہے۔
تقریر لڑنا - (۱) محاورہ۔ قسمت کا سازگار ہونا۔ تقریر کا موافق آنا۔
تقریر موافق ہونا - (۱) محاورہ۔ محبت یا اور ہونا۔
تقریر میں لکھا ہونا - (۱) محاورہ۔ قسمت میں ہونا۔
تقریر میں لکھنا - (۱) محاورہ۔ خدا کا مقدر کرنا۔
تقریر والا - (۱) صفت۔ خوش نصیب۔
تقریر یا اور ہونا - (۱) محاورہ۔ قسمت مددگار ہونا۔
تقریر نہیں چلی - (۱) محاورہ۔ قسمت میں اسی طرح لکھا تھا نقصان کے سونچ پر تسلی کے لیے کہتے ہیں۔
تقریری - (تق - ری) (ع - ف - صفت) تقریر کے متعلق۔ قسمت کا۔
تقریری (امر) معطلہ - ہونی۔ ہونے والی بات۔ وہ بات جس میں تدبیر کو دخل نہ ہو اور ضرور پوری ہو کر رہے۔
تقریس - (تق - ریس) (ع - ا - ۱ - مث) (۱) پاکیزگی۔ پاک۔ تقدس۔
تقریس و تمیید - (ع - ا - ۱ - مث) (۱) خدائی پالی میان کرنا۔ حمد کرنا۔
تقدیم - (تق - دیم) (ع - ا - ۱ - مث) (۱) پیش کرنا (۲) مقدم گھننا (۳) ترجیح۔
تقدیم و قیمت - (۲) پیش قدمی (۵) آگے چھینا (۶) افضلیت۔ مقدم ہونا۔
تقدیم و تاخیر - (۱) پہلے کہنے کو پہلے اور پچھے کہنے کو پچھے کر دینا (۲) آگے چلے کرنا۔

تنگا - (تنگ - ک) ڈار - (مذ) دا گوشت کا ٹکڑا - لمبی یا پتیلی بوٹی (۲) لوٹھرا۔
 تنگا اٹارنا - (۳) بچہ۔
 تنگا بوٹی کرنا - (۱) - محاورہ) (۱) ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔ دھیمیاں اڑانا (۲)
 تنگے بانٹ لینا۔
 تنگے (بیکانا) لگانا - (۱) - محاورہ) (۱) کباب لگانا (۲) چھپڑا نظر کرنا۔
 تنگے (۳) طعن و تشنیع کرنا۔
 تنگا - (تنگ - ک) ڈار - (مذ) وہ تیر جس میں بھال نہ ہو بلکہ گھنڈی یا ٹکڑے ہو۔
 بان - ناؤک (۲) پن) کی کئی کئی۔
 تنگا جلانا - (۱) - محاورہ) (۱) اٹکل پختہ کرنا (۲) کوئی فضول کام کرنا۔
 تنگا سنا - (۱) - صفت) تیر کی طرح سیدھا۔
 تنگا کھڑا رہنا - (۱) - محاورہ) ہر وقت موجود کھڑا رہنا۔ سر پر کھڑا رہنا۔
 تنگا سی ڈاڑھی - تیر کی طرح ڈاڑھی۔ چنگی ڈاڑھی۔
 تنگا سب سیدھی - (۱) - صفت) بہت سیدھی۔
 تنگا فضعتی - تو تو میں میں - ذلت و رسوائی۔ جھلکا - تکرار۔
 تنگا سٹل - (ت - کا - سٹل) (مذ) سستی۔ گاٹی۔ آرام طلبی۔
 تنگا کرنا - (۱) - محاورہ) حسرت سے دیکھنا۔
 تنگا لیف - (ت - کا - لیف) (مذ) (۱) صفت) کیلیف کی جمع۔ کیلیفیں۔
 تنکاں سرت - تھان، ڈار۔ (مذ) تھکن۔ مانڈگی۔ کسل مندی۔
 تنکاں اٹارنا - (۱) - محاورہ) (۱) تھکاوٹ رفع کرنا (۲) تازہ دم ہونا۔
 تنکاں بستر ہونا۔
 تنکاں اٹارنا - (۱) - محاورہ) (۱) تھکاوٹ رفع ہونا (۲) سستی دور ہونا۔
 تنکاں پہنچنا - (۱) - محاورہ) صدر پہنچنا۔ تکلیف پہنچنا۔
 تنکاں چوتنا - (۱) - محاورہ) (۱) تھک جانا۔ تھکاوٹ ہونا (۲) سستی ہونا۔
 تنکیر - (ت - ک) بر - (مذ) (۱) بڑائی کا اظہار (۲) غرور و گھمنڈ۔
 تنکیر عزت زلی را خوار کر دو - کہ غرور نے شیطان کو ذلیل کیا اور لعنت
 پر زندان لعنت گرفتار کر دیا۔
 تنکیر میں گرفتار کیا۔ تنکیر ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔
 تنکلی - (تنگ - ب - کی) (مذ) (۱) جلدی (۲) بے تالی۔ بے مہینی۔
 تنکیر - (تنگ - ب - ک) (مذ) (۱) اللہ اکبر کہنا۔ خدا کی بڑائی کرنا۔
 تنکیر ادلی - نماز کی پہلی تکبیر۔
 تنکیر تیر تیر - وہ تکبیر جسے کہہ کر نماز شروع کرتے ہیں۔ اس کے پڑھنے سے
 سوائے ادا لے نماز کے تمام چیزیں حرام ہو جاتی ہیں۔
 تنک - (تنگ - بیک) (مذ) (۱) - (۱) - (۱) بیٹوں کے ہانکنے کی آواز (۲)
 پاؤں کی چاب۔
 تنک - (تنگ - ب - ک) (مذ) (۱) - (۱) - (۱) ایک قسم کا کرپلا۔
 تنکیشیر - (تنگ - شیر) (مذ) (۱) - (۱) - (۱) زیادتی، افزونی، بہتات، افراط، کثرت۔
 تنکلیف - (تنگ - شیف) (مذ) (۱) - (۱) - (۱) کاٹھارین۔ کٹافٹ۔
 تنکدر - (ت - کدر) (مذ) (۱) - (۱) - (۱) کدر ہونا۔ پریشان ہونا (۲) گدلا ہونا۔

تقلب - (ت - قل - ب) (مذ) (۱) پھیرنا۔ الٹنا (۲) تبدیلی۔ ترمیم۔
 (۳) حیاتیات کی اصطلاح میں تبدیل نوع۔
 تقلید - (تق - لید) (مذ) (۱) - (۱) - (۱) کسی کے قدم بقدم چلنا۔ کسی
 کی متابعت کرنا۔
 تقلیدی - (تق - لی - دی) (مذ) (۱) - (۱) - (۱) نقل کیا ہوا۔ نقلی۔
 تقلیل - (تق - لیل) (مذ) (۱) - (۱) - (۱) کم کرنا۔ تھوڑا کرنا (۲) کمی۔ قلت۔
 تقلیل قدر زر - زر (سکہ) کی قیمت گھٹانا۔
 تقویٰ - (تق - وی) (مذ) (۱) - (۱) - (۱) ہسار۔ بھروسہ۔ ہمت (۲) تسلی۔ اطمینان۔
 تقویٰ - (تق - وی) (مذ) (۱) - (۱) - (۱) خدا کا خوف۔ پرہیزگاری۔ پارسائی۔ اپنے
 آپ کو گناہ سے بچانا۔
 تقویت - (تق - ویت) (مذ) (۱) - (۱) - (۱) مضبوط کرنا۔ طاقت دینا (۲)
 طاقت۔ قوت (۳) تسلی۔ تسکین (۴) نشی بدر۔
 تقویم - (تق - ویم) (مذ) (۱) - (۱) - (۱) سیدھا کرنا (۲) قائم کرنا (۳) ٹھنڈے لگانا
 (۴) اندازہ (۵) جتڑی۔ پتیرا۔ وہ کتاب جس میں سال بھر کی تاریخیں
 ستاروں کے مقامات اور بہن وغیرہ کا ذکر ہوتا ہے۔ کیلنڈر۔
 جمع : تقویم۔
 تقویم پارینہ - (تق - ویم) (مذ) (۱) - (۱) - (۱) پرانی جتڑی (۲) بیکار چیز یا چیز
 (۳) کرنا۔ بڑھتی ہوئی چیز۔
 تقویم پارینہ بکار می آہدیش (۱) - (۱) - (۱) پرانی جتڑی کسی کام نہیں آتی۔ فضول
 چیز کو قبضہ کر کے لاکھوں ناغہ نہیں۔
 تقویٰ - (تق - وی) (مذ) (۱) - (۱) - (۱) صفت) جتڑی سے متعلق۔
 تقویٰ ہمینہ - (تق - وی) (مذ) (۱) - (۱) - (۱) مذہبی ہمینہ۔
 تقویٰ - (تق - وی) (مذ) (۱) - (۱) - (۱) صفت) خدا سے ڈسنے والا۔ پرہیزگار۔ پارسا۔
 تقید - (تق - ی) (مذ) (۱) - (۱) - (۱) قید کرنا (۲) تکیہ۔ تینہ۔
 تقیہ - (تق - ی) (مذ) (۱) - (۱) - (۱) خدا کا ڈر۔ پرہیزگاری (۲) وہ راز جو
 دل میں ہو مگر کسی کے خوف سے ظاہر نہ کیا جائے (۳) ڈر کی وجہ سے
 حق پوشی کرنا (۴) شیوہ مسلمانوں کے عقیدے میں کسی ظلم کے ڈر سے
 حق پوشی۔

ت ک

تنگ - (ت - گ) (مذ) (۱) بڑی ترازو۔ جس کو زمین پر نصب کرتے ہیں (۲)
 (۳) حرف جار پاس۔ نزدیک (۳) حد اور فاصلہ ظاہر کرنے کے لیے
 آتا ہے۔
تنگ - (ت - گ) (مذ) (۱) قافیہ سبع (۲) غزل یا نظم کا ایک شعر (۳)
 وہ بات جو اپنی طرف سے سنائی جائے۔ ذمہ۔
تنگ بند - (ت - گ) (مذ) (۱) - (۱) - (۱) تنگ سے تنگ ملائی والا (۲) بکواسی۔
تنگ بندی - (ت - گ) (مذ) (۱) - (۱) - (۱) ایسے شعر جن کا وزن۔ ردیف۔ قافیہ
 درست ہو (۲) بکواس۔
تنگ (بجورن) ملا نا۔ (۱) قافیہ ملا نا (۲) گھٹیا شعر کہنا۔

تکلیف (ت۔ کل۔ لُف) (دع۔ ۱۔ مذ) (۱) تکلیف اٹھا کر کوئی کام کرنا (۲) تکلیف گوارا کرنا (۳) بنا دوٹ۔ ظاہر داری۔ نمائش (۴) آرائش آرائشی (۵) عزیمت برتنا (۶) حجاب یا لحاظ کی وجہ سے تکلیف اٹھانا (۷) تامل۔ ہچکچاہٹ۔
 تکلیف برتنا۔ (۱) محاذوہ ظاہر داری برتنا نمائش کا سار برتنا کرنا۔
 تکلیف برطرف۔ (دع۔ ف۔ صغ) بے تکلیف۔ بلا تصنع۔
 صاف صاف۔ کھلے طور پر۔
 تکلیف کرنا۔ (۱) محاورہ (۱) آڑا ستہ کرنا۔ ٹھٹھا باٹ دکھانا (۲) شرم کرنا۔ حجاب کرنا۔
 تکلیف میں ریل چل دی۔ (۱) محاورہ لکھنؤ کے دوشریف آدمی کہیں جاری سے تھے ایک نے کہا۔ حضرت! سوار ہو جئے۔ دوسرے نے کہا۔ قبلہ! پہلے آپ۔ پہلے نے کہا۔ نہیں قبلہ! آپ۔ دیر تک۔ اسی طرح ہوتا رہا۔ یہاں تک کہ ریل چل دی۔
 تکلیف ٹکنا۔ (۱) محاورہ بخوبی ٹکنا۔ لطافت ٹکنا۔
 تکلیفات۔ (ت۔ کل۔ ل۔ فات) (دع۔ ۱۔ مذ) (۱) تکلیف کی جمع (۲) آرائش و زیبائش۔ ٹھٹھا باٹ۔ امیرانہ ساز و سامان۔
 تکلیفات رستی۔ ظاہری نمائش۔ ظاہر داری کی باتیں۔
 تکلیفات للہ تعالیٰ۔ فضول ٹھٹھا۔ سیکار ظاہر داریاں۔
 تکلم۔ (ت۔ کل۔ لم) (دع۔ ۱۔ مذ) (۱) بات کرنا۔ بولنا۔ کلام کرنا (۲) گفتگو۔ بات چیت۔
 تکلیف۔ (ت۔ لیف) (دع۔ ۱۔ مذ) (۱) دکھ۔ رنج۔ درد (۲) مصیبت۔ (۳) تنگ۔ ناداری (۴) دشواری۔ دقت۔
 تکلیف آنا۔ (۱) مصیبت آنا (۲) بیماری آنا (۳) تنگی کی حالت ہونا۔
 تکلیف اٹھانا۔ تکلیف برداشت کرنا۔ تکلیف سہارنا۔ مصیبت جھیلنا۔
 تکلیف دینا۔ (۱) دکھ دینا (۲) کسی کام کو کہنا۔ کسی بات کی درخواست کرنا۔ وہ کام جس کے کرنے کو دل نہ جاسے۔
 تکلیف (فرمانا) کرنا۔ (۱) محاورہ (۱) تکلیف اٹھانا (۲) تشریح لانا۔ قدم رنجہ ڈرنا۔
 تکلیف مال لایطاق۔ (دع۔ صغ) ایسی تکلیف جو برداشت کی جاسکے۔
 تکمیل۔ (ت۔ کم۔ ل۔ د) (دع۔ ۱۔ مذ) نیمہ۔ تترہ۔ جو اصل مضمون کو مکمل کرے۔ جمع۔ تکمیل جات۔
 تکمیل۔ (ت۔ کم۔ ل۔ د) (دع۔ ۱۔ مذ) (۱) کھنڈی۔ مٹن (۲) کپوتروں کا ایک مرض جس میں آنکھوں میں دانے نکل آتے ہیں۔
 تکمیل۔ (ت۔ کم۔ ل۔ د) (دع۔ ۱۔ مذ) (۱) پورا کرنا۔ انجام دینا۔ تمام کرنا۔ (۲) تمام۔ انجام۔ کمال۔
 تکمیل پانا۔ (۱) محاورہ مکمل ہو جانا۔ ختم ہو جانا۔
 تکمیل لفتائش۔ (۱) محاورہ مقدمے کے ہر پہلو کو دریافت کرنا۔ مقدمے میں سے متعلق کوئی معاملہ دریافت کرنے بغیر نہ چھوڑنا۔
 تکمیل مستک۔ (ت۔ ف۔ م) (دع۔ ۱۔ مذ) (۱) مستک کی قانونی شرائط کا پورا ہو جانا۔

میلہ ہونا (۲) میلان (۳) دل کی پریشانی۔
 تکدر۔ (ت۔ کم۔ ل۔ د) (دع۔ ۱۔ مذ) (۱) وہ درد پیر جو کاری گردوں کو پیشگی دیا جائے (۲) حساب کا تخمینہ بجٹ۔ اندازہ۔
 تکذیب۔ (ت۔ کم۔ ل۔ د) (دع۔ ۱۔ مذ) (۱) جھوٹا۔ جھوٹ بولنے کا لازم لگانا۔
 تکرار۔ (ت۔ کم۔ ل۔ د) (دع۔ ۱۔ مذ) (۱) بار بار کہنا۔ دہرانا (۲) جہت۔ بحث۔ (۳) جھگڑا۔ لفظی نزاع۔ زبانی لڑائی۔
 تکرار کرنا۔ (۱) محاورہ جھگڑنا۔ اٹھنا۔ سر ہونا۔ بار بار کہنا۔
 تکرار نکالنا۔ (۱) محاورہ جھگڑا پیدا کرنا۔
 تکرار ساری۔ (ت۔ کم۔ ل۔ د) (دع۔ ۱۔ مذ) (۱) صغ جھگڑا۔ لڑاکا۔ فساد۔ جھجٹی۔
 تکرار۔ (ت۔ کم۔ ل۔ د) (دع۔ ۱۔ مذ) (۱) دہرانا۔ بار بار کہنا۔
 تکریم۔ (ت۔ کم۔ ل۔ د) (دع۔ ۱۔ مذ) (۱) عزت کرنا۔ تعظیم کرنا۔ ادب کرنا۔ (۲) خاطر تواضع۔ آذہجت۔ خاطر مدارات۔
 تکڑا۔ (ت۔ کم۔ ل۔ د) (دع۔ ۱۔ مذ) (۱) طاقت ور (۲) مڑنا تازہ۔
 تکڑا۔ (ت۔ کم۔ ل۔ د) (دع۔ ۱۔ مذ) (۱) طاقت ور (۲) مڑنا تازہ۔
 تکڑی۔ (ت۔ کم۔ ل۔ د) (دع۔ ۱۔ مذ) (۱) جھوٹی راز و (۲) مضبوط۔
 طاقت ور عورت۔
 تکلس۔ (ت۔ کم۔ ل۔ د) (دع۔ ۱۔ مذ) (۱) وہ تیا۔ جس میں پاں رکھ کر محرومی شکل کی پڑیا بنا دیتے ہیں (۲) تارکی کی چند گڈیوں کا ٹھٹھا۔
 تکلس۔ (ت۔ کم۔ ل۔ د) (دع۔ ۱۔ مذ) (۱) سست ہونا۔ کابل ہونا (۲) سستی کابل (۳) بیماری۔ مرض۔ کسل مندی۔
 تکیسر۔ (ت۔ کم۔ ل۔ د) (دع۔ ۱۔ مذ) (۱) توڑنا (۲) حساب میں حاصل آگے لے جانا (۳) اس طرح تقسیم کرنا کہ کسے آجائے (۴) اعداد کو تعویذ کے خانوں میں اس طرح لکھنا کہ مجموعہ ہر طرف برابر ہو۔
 تکیش۔ (ت۔ کم۔ ل۔ د) (دع۔ ۱۔ مذ) (۱) ترکش۔ تیروں کے رکھنے کا خانہ۔ تیردان۔
 تکلف۔ (ت۔ کم۔ ل۔ د) (دع۔ ۱۔ مذ) (۱) ذمہ دار ہونا۔ ضامن بننا (۲) ضمانت۔ کفالت۔
 تکفیر۔ (ت۔ کم۔ ل۔ د) (دع۔ ۱۔ مذ) (۱) کفر کا فتویٰ دینا۔ کافر ٹھہرانا۔ کافر کرنا۔ کفر کا الزام لگانا۔
 تکفیل۔ (ت۔ کم۔ ل۔ د) (دع۔ ۱۔ مذ) (۱) ضمانت دینا۔ ضامن بننا۔ کفالت کرنا۔ ذمہ دار ہونا۔
 تکفین۔ (ت۔ کم۔ ل۔ د) (دع۔ ۱۔ مذ) (۱) کفن دینا۔
 تکفل۔ (ت۔ کم۔ ل۔ د) (دع۔ ۱۔ مذ) (۱) تکمیل کا پتہ۔
 تکفل۔ (ت۔ کم۔ ل۔ د) (دع۔ ۱۔ مذ) (۱) چرنے کی وہ آہنی سلاخ جس پر کاتے وقت گڑی پتی جاتی ہے۔
 تکفلے کابل۔ (۱) محاورہ تکفلے کا خم یا ٹیڑھا پن۔
 تکفلے کا سابل نکل گیا۔ (۱) محاورہ درست ہو گیا۔ مار کھا کھا کر ٹیکہ نہ رہا۔ تلاجب ٹیڑھا ہو جاتا ہے تو اسے ضرر میں لگانا کڑھیک کرتے ہیں۔
 تکفلے کا کھانڈ۔ (۱) مذ) (۱) زخم جو تکفلے کی نوک سے ہو۔
 تکفلے۔ (ت۔ کم۔ ل۔ د) (دع۔ ۱۔ مذ) (۱) تکفلے کی وہ ڈور جو ہاتھ کے ٹکڑے اور پھینکی پر لپیٹ کر اٹھی کرتے ہیں۔

تیکمیل لہرن - (ف. ۱- مٹ) رہن کی معاد کا پورا ہونا۔
 تیکمیل کو پہنچانا - (۱- محاورہ) مکمل کرنا۔ پورا کرنا۔ انجام کو پہنچانا
 تیکنا - (تک۔ نا۔ زہ۔ مص) (۱) دیکھنا (۲) منگنی باندھنا۔ غور سے دیکھنا (۳)
 امید رکھنا۔ آس رکھنا (۴) انتظار کرنا (۵) بڑی نظر سے دیکھنا (۶) کوئی
 چیز اڑانے یا چرنے کا موقع دیکھنا۔

تکنیک - (Technique) (دیکھئے تکنیک) (۱) فنون کا نظریہ۔
 (۲) ہنر مندی (۳) فنی طریق اظہار۔
 تکلوا - (تک۔ وا۔ ذ۔ تکلا۔
 تکلوری - (ت۔ کو۔ بری) (رق۔ ا۔ مٹ) بے سرتوتی۔
 تکوننا - (ت۔ کو۔ نا) (۳- صف) تین کونے والا مثلث۔ تکوننا۔
 تکون - (تک۔ وین) (۱- مٹ) پیدا کرنا۔ عالم وجود میں آنا۔
 تکھارنا - (ت۔ کھارنا) (۱- مٹ) دلیل سے ثابت کرنا (۲) اچھی طرح
 دریافت کرنا (۳) کسی فعل کو تین دفعہ کرنا (۴) تین مرتبہ بل جلانا۔
 تکھری - (تکھری) (تکھری) (۱- مٹ) (۱) چھوٹی ترانوہ۔
 (۲) سرازور کے پلڑے۔
 تکھنٹا - (تکھنٹا) (ت۔ کھن۔ ٹا) (۱- مٹ) (۱) تکھنٹا۔ تین
 کونے والے۔

تکلی لگانا - (تک۔ کی۔ ل۔ گا۔ نا) (۱- مٹ) گھوننا۔ منگنی باندھنا۔
 تکلیہ - (تک۔ یہ) (ف. ۱- ہذ) (۱) آرام کی جگہ (۲) سر لانے رکھنے کی چیز (۳)
 بھروسہ پورا اعتماد۔ (۴) فقیروں کے رہنے کی جگہ (۵) قبرستان۔
 گورستان۔
 تیکم پور و رگ پور ہونا - (۱- محاورہ) خدا پر بھروسہ ہونا۔
 تیکمہ ڈار - (ف. ۱- ذ۔ مہ) (۱) فقیر جو تیکمہ میں رہے۔ قبرستان کا سجاد نشین۔
 تیکمہ دھوب میں رکھنا - (۱- محاورہ) گردن کے درد کا علاج
 سمجھا جاتا ہے۔

تیکمہ کرنا - (۱- محاورہ) (۱) بھروسہ کرنا۔ اعتماد کرنا (۲) امید رکھنا۔ آس رکھنا۔
 تیکمہ کلام - (ف. ۱- ذ۔ مہ) (۱) لفظ جو گفتگو کے دوران میں عادت کے طور پر
 بار بار بولا جائے۔
 تیکمہ گاہ - (ف. ۱- مٹ) بھروسے کی جگہ۔
 تیکمہ لگا کر بیٹھنا - (۱- محاورہ) تیکمہ یا کسی اور چیز سے بیٹھ لگا کر بیٹھنا۔
 تیکمہ لگانا - (۱) دیوار یا کسی چیز کے سہارے بیٹھنا (۲) بھروسہ کرنا۔
 آس لگانا۔

تیکمہ نشین - (ف. ۱- صف) تیکمہ دار۔
 تیکمہ سے کمر نہ اٹھا سیکنا - (۱- محاورہ) بہت ہمار ہونا۔ بہت کمزور ہونا۔
 تیکمہ کا کتا - (۱- مٹ) وہ شخص جو دوسروں کے ٹکڑوں پر پڑا رہے۔

تیکمہ لگانا - (۱) دیوار یا کسی چیز کے سہارے بیٹھنا (۲) بھروسہ کرنا۔
 آس لگانا۔

تیکمہ نشین - (ف. ۱- صف) تیکمہ دار۔
 تیکمہ سے کمر نہ اٹھا سیکنا - (۱- محاورہ) بہت ہمار ہونا۔ بہت کمزور ہونا۔
 تیکمہ کا کتا - (۱- مٹ) وہ شخص جو دوسروں کے ٹکڑوں پر پڑا رہے۔

تیکمہ لگانا - (۱) دیوار یا کسی چیز کے سہارے بیٹھنا (۲) بھروسہ کرنا۔
 آس لگانا۔

تیکمہ نشین - (ف. ۱- صف) تیکمہ دار۔
 تیکمہ سے کمر نہ اٹھا سیکنا - (۱- محاورہ) بہت ہمار ہونا۔ بہت کمزور ہونا۔
 تیکمہ کا کتا - (۱- مٹ) وہ شخص جو دوسروں کے ٹکڑوں پر پڑا رہے۔

تیکمہ لگانا - (۱) دیوار یا کسی چیز کے سہارے بیٹھنا (۲) بھروسہ کرنا۔
 آس لگانا۔

تیکمہ نشین - (ف. ۱- صف) تیکمہ دار۔
 تیکمہ سے کمر نہ اٹھا سیکنا - (۱- محاورہ) بہت ہمار ہونا۔ بہت کمزور ہونا۔
 تیکمہ کا کتا - (۱- مٹ) وہ شخص جو دوسروں کے ٹکڑوں پر پڑا رہے۔

(۲) تلاش جستجو۔
 تیکم و دو ملی رہنا - (۱- محاورہ) دودھ دھوب جا رہی رہنا۔
 تیکم - (تک۔ مٹ) (۱- مٹ) (۱) دیم کا شوہر۔ آنا کا خاندان۔ (۲) گھر۔
 تیکمہ (تک۔ مٹ) (۱- مٹ) (۱) دیم کا شوہر۔ آنا کا خاندان۔ (۲) گھر۔
 تیکمہ (تک۔ مٹ) (۱- مٹ) (۱) دیم کا شوہر۔ آنا کا خاندان۔ (۲) گھر۔
 تیکمہ (تک۔ مٹ) (۱- مٹ) (۱) دیم کا شوہر۔ آنا کا خاندان۔ (۲) گھر۔

تیکمہ (تک۔ مٹ) (۱- مٹ) (۱) دیم کا شوہر۔ آنا کا خاندان۔ (۲) گھر۔
 تیکمہ (تک۔ مٹ) (۱- مٹ) (۱) دیم کا شوہر۔ آنا کا خاندان۔ (۲) گھر۔
 تیکمہ (تک۔ مٹ) (۱- مٹ) (۱) دیم کا شوہر۔ آنا کا خاندان۔ (۲) گھر۔
 تیکمہ (تک۔ مٹ) (۱- مٹ) (۱) دیم کا شوہر۔ آنا کا خاندان۔ (۲) گھر۔

تیکمہ (تک۔ مٹ) (۱- مٹ) (۱) دیم کا شوہر۔ آنا کا خاندان۔ (۲) گھر۔
 تیکمہ (تک۔ مٹ) (۱- مٹ) (۱) دیم کا شوہر۔ آنا کا خاندان۔ (۲) گھر۔
 تیکمہ (تک۔ مٹ) (۱- مٹ) (۱) دیم کا شوہر۔ آنا کا خاندان۔ (۲) گھر۔
 تیکمہ (تک۔ مٹ) (۱- مٹ) (۱) دیم کا شوہر۔ آنا کا خاندان۔ (۲) گھر۔

تیکمہ (تک۔ مٹ) (۱- مٹ) (۱) دیم کا شوہر۔ آنا کا خاندان۔ (۲) گھر۔
 تیکمہ (تک۔ مٹ) (۱- مٹ) (۱) دیم کا شوہر۔ آنا کا خاندان۔ (۲) گھر۔
 تیکمہ (تک۔ مٹ) (۱- مٹ) (۱) دیم کا شوہر۔ آنا کا خاندان۔ (۲) گھر۔
 تیکمہ (تک۔ مٹ) (۱- مٹ) (۱) دیم کا شوہر۔ آنا کا خاندان۔ (۲) گھر۔

تیکمہ (تک۔ مٹ) (۱- مٹ) (۱) دیم کا شوہر۔ آنا کا خاندان۔ (۲) گھر۔
 تیکمہ (تک۔ مٹ) (۱- مٹ) (۱) دیم کا شوہر۔ آنا کا خاندان۔ (۲) گھر۔
 تیکمہ (تک۔ مٹ) (۱- مٹ) (۱) دیم کا شوہر۔ آنا کا خاندان۔ (۲) گھر۔
 تیکمہ (تک۔ مٹ) (۱- مٹ) (۱) دیم کا شوہر۔ آنا کا خاندان۔ (۲) گھر۔

تیکمہ (تک۔ مٹ) (۱- مٹ) (۱) دیم کا شوہر۔ آنا کا خاندان۔ (۲) گھر۔
 تیکمہ (تک۔ مٹ) (۱- مٹ) (۱) دیم کا شوہر۔ آنا کا خاندان۔ (۲) گھر۔
 تیکمہ (تک۔ مٹ) (۱- مٹ) (۱) دیم کا شوہر۔ آنا کا خاندان۔ (۲) گھر۔
 تیکمہ (تک۔ مٹ) (۱- مٹ) (۱) دیم کا شوہر۔ آنا کا خاندان۔ (۲) گھر۔

تیکمہ (تک۔ مٹ) (۱- مٹ) (۱) دیم کا شوہر۔ آنا کا خاندان۔ (۲) گھر۔
 تیکمہ (تک۔ مٹ) (۱- مٹ) (۱) دیم کا شوہر۔ آنا کا خاندان۔ (۲) گھر۔
 تیکمہ (تک۔ مٹ) (۱- مٹ) (۱) دیم کا شوہر۔ آنا کا خاندان۔ (۲) گھر۔
 تیکمہ (تک۔ مٹ) (۱- مٹ) (۱) دیم کا شوہر۔ آنا کا خاندان۔ (۲) گھر۔

تیکمہ (تک۔ مٹ) (۱- مٹ) (۱) دیم کا شوہر۔ آنا کا خاندان۔ (۲) گھر۔
 تیکمہ (تک۔ مٹ) (۱- مٹ) (۱) دیم کا شوہر۔ آنا کا خاندان۔ (۲) گھر۔
 تیکمہ (تک۔ مٹ) (۱- مٹ) (۱) دیم کا شوہر۔ آنا کا خاندان۔ (۲) گھر۔
 تیکمہ (تک۔ مٹ) (۱- مٹ) (۱) دیم کا شوہر۔ آنا کا خاندان۔ (۲) گھر۔

ت

تک - (۱- ذ۔ تے) نیچے نیچے کا حصہ۔ نشیب (۲) لمحہ۔ ذرا سی دیر (رق)
 تکلیف - (۱- مٹ) (۱) نیچے آدر۔ اٹل پلٹ (۲) تباہ۔ برباد۔
 تکلیف - (ف. ۱- مٹ) (۱) مٹ) (۱) نیچے آدر۔ اٹل پلٹ (۲) تباہ۔ برباد۔
 تکلیف - (ف. ۱- مٹ) (۱) مٹ) (۱) نیچے آدر۔ اٹل پلٹ (۲) تباہ۔ برباد۔

تکلیف - (ف. ۱- مٹ) (۱) مٹ) (۱) نیچے آدر۔ اٹل پلٹ (۲) تباہ۔ برباد۔
 تکلیف - (ف. ۱- مٹ) (۱) مٹ) (۱) نیچے آدر۔ اٹل پلٹ (۲) تباہ۔ برباد۔
 تکلیف - (ف. ۱- مٹ) (۱) مٹ) (۱) نیچے آدر۔ اٹل پلٹ (۲) تباہ۔ برباد۔
 تکلیف - (ف. ۱- مٹ) (۱) مٹ) (۱) نیچے آدر۔ اٹل پلٹ (۲) تباہ۔ برباد۔

تگ

تگ - (ف. ۱- مٹ) دوڑنا۔ بھاگنا۔ مرکبات میں آتا ہے جیسے تگ و دو۔
 تگ و دو - (تگ و دو) (۱) دوڑ دھوپ۔ کوشش سنی۔

تل نظر - (۱) جو آنکھیں چار نہ کرے (۲) وہ بد نظر - جو چپکے چپکے دیکھے۔
 تل - (ع. ۱-۱۰) (۱) پہاڑی - ٹھلا (۲) ڈھیر - تودہ (۳) گھنڈروں کا ڈھیر۔
 تل - (دہ. ۱-۱۰) (۱) ایک قسم کا تخم جس سے تیل نکلتا ہے (۲) خال - سیاہ نقطہ
 کابل کا نقطہ (۳) آنکھ کی پتلی (۴) وہ نقطہ جہاں سورج کی کرنیں آنتی
 شیشے میں سے گذر کر جمع ہوتی ہیں (۵) ذرہ - تھوڑی سی چیز (۶) تلے
 تیلے (ق)
 تل آویٹھل پہاڑ اویٹھل - (۱) ایشل (۲) ذرا سے پردے میں بڑی بات
 کا چھٹانا۔
 تل براتر - (پھر) (۱) مذ. ذرہ بھر - ذرا سا - تھوڑا سا - رانی برابر۔
 تل (بنا نا) لگانا - (۱) محاورہ (۲) کابل کی بندی لگانا (۳) پتوں کو نظر
 بد سے بچانے کے لیے کابل کا نشان لگانا۔
 تل بندھنا - (۱) محاورہ (۲) آفتاب کی کرنوں کا آنتی شیشے سے نکل کر کسی
 چیز پر تل کی شکل کا بن کر پڑنا۔
 تل بھر ہو - پہاڑ بھر محبت - (۱) جب کسی وقت اپنا دُور کا رشتہ دار
 دوست سے زیادہ کام آئے۔ اس موقع پر بولتے ہیں۔
 تل بھگا - (۱) مذ. ایک قسم کی مٹائی جو شکر اور تلوں کو کوٹ کر بنائی جاتی ہے۔
 تل بیلنا - جس مرکب، تلوں کا تیل کو لہو میں نکالنا۔
 تل بیل بھر - (۱) تھوڑا تھوڑا کر کے - ذرا ذرا (۲) آہستہ آہستہ۔
 تل بیل بھر دھن جوڑے سا جو (۱) (۲) کسی کی محنت کو خاطر میں
 نہ رکھنے کے محاکمات بھرے نہ اکتفا کسی کی محنت پر ذرا رحم دکھانا
 تل کا (حساب) کیلکھا - (۱) مذ. رتی رتی کا حساب۔
 تل جاٹنا - مسلمان عورتوں میں ایک رسم کہ وہ دولہا کو دواغ کے وقت
 داہن کے ہاتھ میں کالے تل رکھو اور دولہا سے چہرانی میں تاکہ وہ بھر
 تابع رہے۔
 تل چور سوچو چور - (۱) تھوڑی چوری اور بہت چوری ایک برابر
 ہوتی ہے۔ جو تھوڑی چوری کرتا ہے وہ بہت بھی کرے گا۔
 تل (چاڈلی) چاڈولی - (۱) مٹ (۲) تل اور چاول ملے ہونے۔
 (۳) سیاہ و سفید بال۔
 تل چاڈلی ڈاڑھی - (۱) مٹ، ڈھ ڈاڑھی جس میں کالے اور سفید
 بال ہوں۔
 تل چٹا - (۱) مذ. ایک قسم کا بھینگر۔
 تل چوری - (۱) ایک قسم کی مٹائی (۲) ایک قسم کی ڈوڑ جو درنگ کے
 دھاگوں سے بٹ کر بنائی جاتی ہے۔
 تل دھرنے کو جگہ نہ ہونا - (۱) محاورہ (۲) بہت ہی بھرا ہوا ہونا۔
 بالکل بھری نہ ہونا۔
 تل رے تو تیل نکلے - (۱) اصل چیز ہونی چاہیے۔ دھیر ہو تو
 پھر سب کام ہو جاتے ہیں۔
 تل شکر کی - (۱) مٹ (۲) ایک قسم کی مٹائی جو تل اور شکر سے بناتے
 ہیں - گڑگ (۳) ایک رسم - داہن کے ہاتھ پر تل اور شکر رکھ دیتے ہیں۔
 اور دم لہنا سات مرتبہ چاہتا ہے۔

تل کالک - (۱) مذ. بدن کا سیاہ خال (۲) وہ آدمی جس کے بدن
 پر سیاہ خال یا مٹا ہو۔
 تل لٹ - (۱) مذ. رتوں کا لٹا۔
 تیلوں میں تیل نہ کہنا - (۱) محاورہ (۲) ظاہرات کو چھٹانا۔
 تیلوں میں تیل نہ ہونا - (۱) محاورہ (۲) مروت نہ ہونا - محبت نہ ہونا۔
 رتوں (ہی) میں سے تیل نکلتا ہے - (۱) مثل (۲) فائدہ اور خرچ
 اصل چیز ہی میں سے ہوتا ہے۔
 تلوں میں سے تیل نکالنا - (۱) محاورہ (۲) کفاریت شکاری کرنا (۳)
 اپنے مال کی زیادہ قیمت لگانا۔
 تل پرہ - (۱) برابر کیساں (۲) مانند (۳) ہم شکل - ہم صورت (۴) ٹھنا کا اثر۔
 تل پھٹنا - (۱) محاورہ (۲) ایسا سدا بھٹنا کسی طرف جھکا ڈھنہ ہو - ہم وزن
 ہو جو کہ پھٹنا (۳) مستعد ہونا - آمادہ ہونا۔
 تل پڑنا - (۱) محاورہ (۲) کسی کام کے کرنے کے لیے مستعد ہو جانا۔
 تل زہنا - (۱) محاورہ (۲) مقابلے میں کھڑا ہونا - سامنے ہونا - لڑائی کے لیے
 مقابلے میں کھڑے ہونا۔
 تل کی آویٹھل (اوٹ) پہاڑ - (۱) ایشل (۲) ذرا سے پردے میں کسی بڑی
 بات کا پوشیدہ ہونا (۳) کسی کو کسی چیز کا ظاہر ہونا۔
 تل کی ترارو - (۱) مٹ (۲) وہ ترانہ جس پر بادشاہ اور راجے قتلے جلتے تھے۔
 تلا - (د. ۱-۱۰) (۱) مذ. جونی کا پھلا جسے (۲) تہ - پیندا۔
 تلا دینا - (۱) محاورہ (۲) ہانڈی یا پھیلی کے نیچے گیل یعنی پڑھانا تاکہ آگ کے اثر
 سے محفوظ رہے۔
 تلا لگانا - (۱) محاورہ (۲) جونی کے نیچے کے حصے میں چڑا لگانا۔
 تلا - (۱) مذ. لگاؤ دار (۲) مذ. لگانا کناری وغیرہ (۳) بڑی کا ڈیرا ہسرا۔
 تلا کو دن کرنا - (۱) محاورہ (۲) طحال پر کھوکھے لگانا (۳) طھنے دینا - کڑوی
 کھلی باتیں کہنا (۴) شاننا - جلانا - دق کرنا۔
 تلا - (د. ۱-۱۰) (۱) مذ. ترازو و کٹوری (۲) ٹھنکی ماضی (۳) برج میزان۔
 تلا بھٹنا - (۱) محاورہ (۲) آمادہ ہونا۔
 تلا دان - (۱) مذ. فنک برابر خیرات - جس میں ہندو لوگ سونا، چادل اور پیش
 جو قیمت چیزیں وغیرہ اپنے برابر تول کر دان دیتے ہیں۔
 تلا ہوا - (۱) محاورہ (۲) برابر - ہم وزن (۳) جو تولا جاتے۔
 تلا ہونا - (۱) محاورہ (۲) جوش سے آمادہ ہونا۔
 تلا بیل - (د. ۱-۱۰) (۱) مذ. بے - لی (۲) مٹ (۳) بے قراری - اضطراب۔
 تلا مٹا - (د. ۱-۱۰) (۱) مذ. نیچے (۲) مشرق۔
 تلا لے اپراکے - (د. ۱-۱۰) (۱) مذ. نیچے اُپر۔
 تلا جی - (د. ۱-۱۰) (۱) مذ. سبزی ترکاری جسے گھی میں جھون کر کھائیں۔
 تلا دانی - (د. ۱-۱۰) (۱) مذ. تیلے دانی - سوتی دھاگا رکھنے کی لہجی۔
 تلا زرم - (د. ۱-۱۰) (۱) مذ. باہم لازم ہونا - ضروری ہونا۔
 تلا زمرہ - (د. ۱-۱۰) (۱) مذ. معنوں کی رعایت سے الفاظ کا استعمال۔
 تلاش رعایت لفظی - جمع، تلازمات - سعی - کوشش (۲) ڈھونڈ ڈھانڈ۔
 تلاش - (د. ۱-۱۰) (۱) مذ. لاش (۲) لاش (۳) سعی - کوشش (۴) ڈھونڈ ڈھانڈ۔

تلوے تلے ہاتھ دھرنا۔ (۱۔ محاورہ) خوشامد کرنا۔
 تلوے صلنا۔ (۱۔ محاورہ) تلووں میں سوزش ہونا۔ گرمی سے تلووں میں
 ملبن ہونا۔
 تلوے جاننا۔ (۱۔ محاورہ) نہایت خوشامد کرنا۔
 تلوے چھپتی ہو جانا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) بہت جلنے سے تلووں کا زخمی
 ہو جانا (۲) کسی کام کے لیے نہایت دوزخ ہو پ کرنا۔
 تلوے دھو دھو کے لینا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) نہایت اطاعت اور
 فرمانبرداری کرنا (۲) کمال تندرانی کرنا۔
 تلوے سہلانا۔ (۱۔ محاورہ) خوشامد کرنا۔
 تلوے گرم کرنا۔ (۱۔ محاورہ) کنایتاً رشوت دینا۔ چھپیلی گرم کرنا۔
 تلوے گھس جانا۔ (۱۔ محاورہ) بہت بھرنے۔ بہت سفر کرنا۔
 تلوے لٹنا۔ (۱۔ محاورہ) تلووں پر تیل یا کسی اور چیز کی مالش کرنا۔
 تلو۔ (۱۔ تیل) (۲۔ مذ) تیل کے لٹو۔
 تلو۔ (۱۔ رطل) (۲۔ وار) (۳۔ مذ) تیغ۔ تیغ۔ تیغ۔ شمشیر۔
 تلو اور اربنا۔ (۱۔ محاورہ) تلواری کاٹ کا امتحان کرنا۔
 تلو اور اٹھانا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) تلواری کاٹھ میں لینا (۲) لٹائی کے
 لیے تیار ہونا۔
 تلو اور اگل پڑنا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) تلواریان سے نکلی رہنا (۲) ہر وقت لٹائی
 کے لیے تیار ہونا۔
 تلو اور باندھنا۔ (۱۔ محاورہ) تلواری میں لگانا۔
 تلو اور بچنا۔ تلو اور برسا۔ (۱۔ محاورہ) تلواری چلنا۔ تلو اور کے ٹکانے کی
 آواز آنا۔ شدت سے تلواری چلنا۔ سخت جنگ ہونا۔
 تلو اور بند۔ (۱۔ مذ) وہ شخص جو تلواری باندھے رہے۔
 تلو اور بندھنا۔ (۱۔ محاورہ) تلواری میں لگانا۔
 تلو اور پیٹ پڑنا۔ (۱) تلواری دھار کے رخ پڑنا (۲) تلواری کا دارغالی جانا۔
 تلو اور پڑنا۔ (۱۔ محاورہ) ایک ناچ جس میں دو آدمی تلواری دونوں طرف
 سے پڑتے ہیں اور تیسرا ان کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر گڑگڑ کر تلواری پڑنا ہوا
 تو سے رکھ دیتا ہے، جو حقیقت میں اس کو چھوڑتے نہیں۔ پھر پاؤں کو جھینس
 دیتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے تلواری پڑنا ہی رہا ہے۔
 تلو اور پر ہاتھ رکھنا (دھرنا)۔ (۱۔ محاورہ) (۱) تلواری مارنے کے ارادے
 سے قبضے پر ہاتھ رکھنا (۲) تلواری پر ہاتھ رکھ کر تم کھانا۔
 تلو اور پڑنا۔ (۱۔ محاورہ) تلواری کاٹ کرنا۔
 تلو اور پھرنے۔ (۱۔ محاورہ) لٹائی کی تیاری کرنا۔ تلواری کا قبضہ ہاتھ میں لینا۔
 تلو اور پھینک دینا۔ پھینکنا۔ جیتنا۔ ڈال دینا۔ جنگ سے باز آنا۔
 تلو اور توپیت پڑی۔ (۱۔ محاورہ) (۱) کام کو گھسیا۔ (۲) جھل) جو کام بڑے
 سے نہ ہوا وہ چھوٹے کرنے کو دیا۔
 تلو اور تولنا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) تلواری کو دار کرنے سے پہلے جاننا تاکہ وار درست
 پڑے (۲) لٹنے کو تیار ہونا۔ تلواری نہاننا۔
 تلو اور پھینا۔ (۱۔ محاورہ) تلواری ہاتھ میں لینا۔
 تلو اور تیر جانا۔ (۱۔ محاورہ) تلواری کاٹ کر دوسری طرف نکل جانا۔

تلواری (پڑنا) بھاڑنا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) تلواری لگانا (۲) تلواری مارنا۔
 تلواری چلنا۔ (۱۔ محاورہ) جنگ ہونا۔ لٹائی ہونا۔ کشت و خون ہونا۔
 تلواری چٹکانا۔ (۱۔ محاورہ) تلواریان سے نکال کر پلانا۔ ننگی تلواری علم کرنا۔
 تلواری چھوڑنا۔ (۱۔ محاورہ) تلواری کا دار کرنا۔
 تلواری چلی پر پھیرنا۔ (۱۔ محاورہ) تلواری سے گلا کاٹنا۔
 تلواری حائل رکھنا۔ (۱۔ محاورہ) تلواری کے میں لگانا۔
 تلواری درمیان (میں) رکھ کر سونا۔ (۱۔ محاورہ) مرد کا اپنے اور عورت
 کے درمیان تلواری رکھ لینا تاکہ وصل میں روک رہے۔
 تلواری دکھانا۔ (۱۔ محاورہ) تلواری سے ڈرانا۔ قتل کی دھمکی دینا۔
 تلواری زب کرنا۔ (۱۔ محاورہ) تلواری کو کرنا۔
 تلواری سوتنا۔ (۱۔ محاورہ) تلواری کھینچنا۔ قتل کا ارادہ کرنا۔
 تلواری سے دو ٹکڑے کرنا۔ (۱۔ محاورہ) تلواری کا دار کر کے دو حصوں میں
 کاٹ دینا۔
 تلواری عیش پر چھو لینا۔ (۱۔ محاورہ) تیغ زنی کی شہرت ہونا۔
 تلواری کا آرتی بننا۔ (۱۔ محاورہ) بہت دیر تک تلواری چلانے پر تلواریوں
 پر دندنے پڑ جانا۔ مجازاً سخت جنگ ہونا۔
 تلواری کا بال۔ (۱۔ مذ) تلواری کی دھار۔
 تلواری کا بل۔ (۱۔ مذ) تلواری کی گ۔
 تلواری کا پانی۔ (۱۔ مذ) (۱) تلواری کاٹ یا تیزی (۲) تلواری کی آب داری۔
 تلواری کا پانی پلانا۔ (۱۔ محاورہ) تلواری سے زخمی کرنا۔
 تلواری کا پٹھا۔ (۱۔ مذ) تلواری کی دھار کی مخالف طرف۔ جو چوڑی ہوتی ہے۔
 تلواری کا پھیل۔ (۱۔ مذ) تلواری کا کاٹنے والا حصہ۔
 تلواری کا جوہر۔ (۱۔ مذ) (۱) تلواری کے وہ نقوش جن سے اس کی عمدگی ظاہر
 ہوتی ہے (۲) تلواری کی خوبی۔
 تلواری کا جھالا۔ (۱۔ مذ) داغ جو تلواری میں پڑ جائے۔
 تلواری کا دندنا۔ (۱۔ محاورہ) تلواری کی دھار خراب ہو کر جو دانت خراب ہو جاتے ہیں۔
 تلواری کا دونوں بالوں سے گنا۔ (۱۔ محاورہ) تلواری کے دونوں سرے
 ملانا۔ جس تلواری کو با نہایت عمدہ ہونا ہے اس کے دونوں سرے ملانے
 سے بل جاتے ہیں۔
 تلواری کا دھنی۔ (۱۔ محاورہ) تلواری سے بہت بھی طرح لٹنے والا۔ بہادر سورما۔
 تلواری کا دورا۔ (۱۔ مذ) (۱) دھار۔ بارگھ (۲) دھار کا نشان جو بر شکل خط
 دکھائی دیتا ہے۔
 تلواری کا رومال۔ (۱۔ مذ) وہ کپڑا جو تلواری کے قبضے پر سجاوٹ کے لیے
 باندھتے ہیں۔
 تلواری کاری پڑنا۔ (۱۔ محاورہ) تلواری کا بوری طرح کاٹ کرنا۔
 تلواری کا سبزہ۔ (۱۔ مذ) (۱) وہ سبزی جو تلواری ہلانے سے پھل میں نظر
 آتی ہے۔
 تلواری کا قبضہ۔ (۱۔ مذ) تلواری کا دستہ۔
 تلواری کا قبضہ جو منا۔ (۱۔ محاورہ) تلواری چلانے والے کا تلواری نکال کر لٹنے
 سے پہلے قبضے کو بوسہ دینا۔

تلوار گرمی پر جا پھری۔ (دشل) بزدل حاکم سے رعایا باغی ہو جاتی ہے۔
بغیر تلوار اور طاقت کے رعایا قابو میں نہیں رہتی۔ ریاست بے ریاست
رہ نہیں ہوتی۔

تلوار گھسیٹنا۔ (۱۔ محاورہ) تلوار میان سے نکالنا۔

تلوار لگاتا۔ (۱۔ محاورہ) تلوار مارنا۔

تلوار لیے پھرنا۔ (۱۔ محاورہ) لڑنے کے لیے آمادہ یا تیار رہنا۔

تلوار مارنا۔ (۱۔ محاورہ) تلوار کا دار کرنا۔

تلوار مارے ایک باہر (دشل) احسان کی مار تلوار سے بڑھ کر
احسان ہارے بار بار آیا ہوتی ہے۔

تلوار منہ پر رکھنا۔ (۱۔ محاورہ) تلوار کے وارے منہ نہ پھیرنا۔

تلوار میان (نیام) سے پھینچنا۔ (۱۔ محاورہ) تلوار سوتنا۔ لڑنے کو تیار ہوجانا۔

تلوار میان (نیام) سے نکل پڑنا۔ (۱۔ محاورہ) ہر وقت لڑنے کے
لئے آمادہ و تیار رہنا۔

تلوار میان (نیام) میں کرنا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) تلوار کو خلاف میں رکھنا۔
(۲) لڑنے سے باز رہنا۔

تلوار میں بال آجانا۔ (۱۔ محاورہ) تلوار میں نفس ہو جانا۔

تلوار میں جھالے پڑنا۔ (۱۔ محاورہ) تلوار میں بگری داغ پڑنا۔

تلوار میں گاٹ ہونا۔ (۱۔ محاورہ) تلوار کا اس قدر تیز ہونا کہ جس چیز پر
پڑے، اس کو کاٹ دے۔

تلواروں پر بڑھ لینا۔ (۱۔ محاورہ) تلواروں سے حملہ کرنا۔

تلواروں کا لہرس لینے لینا۔ (۱۔ محاورہ) لڑائی میں تلواروں کا چلنا۔

تلواروں کی چھاؤں میں۔ (۱۔ محاورہ) تلواروں کے سامنے میں۔ (۱) دوران
جنگ میں (۲) بہادر قوموں میں (۳) تلواروں کی حفاظت میں۔ تلواروں
کے اثر میں (۴) کمال حفاظت میں۔

تلواروں کی محراب۔ (۱۔ محاورہ) یہ انگریزی محاورہ ہے۔ جب کسی
فوجی افسر کی شادی ہوتی ہے تو رسم نکاح کے بعد جب دو لہما ڈہن گرجے
سے نکلے ہیں تو دروازے پر بہت سے افسران تلواریں نکال کر آنے
سائے کھڑے ہو کر۔ تلواروں کے کوزوں کو اُدھنچا ملا کر محراب سی بنایتے
ہیں اور دو لہما ڈہن اس کے نیچے سے گزرتے ہیں۔

تلواروں کی شادی۔ (۱۔ محاورہ) یہ انگریزی محاورہ ہے۔ جب کسی
فوجی افسر کی شادی ہوتی ہے تو رسم نکاح کے بعد جب دو لہما ڈہن گرجے
سے نکلے ہیں تو دروازے پر بہت سے افسران تلواریں نکال کر آنے
سائے کھڑے ہو کر۔ تلواروں کے کوزوں کو اُدھنچا ملا کر محراب سی بنایتے
ہیں اور دو لہما ڈہن اس کے نیچے سے گزرتے ہیں۔

تلواروں کی شادی۔ (۱۔ محاورہ) یہ انگریزی محاورہ ہے۔ جب کسی
فوجی افسر کی شادی ہوتی ہے تو رسم نکاح کے بعد جب دو لہما ڈہن گرجے
سے نکلے ہیں تو دروازے پر بہت سے افسران تلواریں نکال کر آنے
سائے کھڑے ہو کر۔ تلواروں کے کوزوں کو اُدھنچا ملا کر محراب سی بنایتے
ہیں اور دو لہما ڈہن اس کے نیچے سے گزرتے ہیں۔

تلواروں کی شادی۔ (۱۔ محاورہ) یہ انگریزی محاورہ ہے۔ جب کسی
فوجی افسر کی شادی ہوتی ہے تو رسم نکاح کے بعد جب دو لہما ڈہن گرجے
سے نکلے ہیں تو دروازے پر بہت سے افسران تلواریں نکال کر آنے
سائے کھڑے ہو کر۔ تلواروں کے کوزوں کو اُدھنچا ملا کر محراب سی بنایتے
ہیں اور دو لہما ڈہن اس کے نیچے سے گزرتے ہیں۔

تلواروں کی شادی۔ (۱۔ محاورہ) یہ انگریزی محاورہ ہے۔ جب کسی
فوجی افسر کی شادی ہوتی ہے تو رسم نکاح کے بعد جب دو لہما ڈہن گرجے
سے نکلے ہیں تو دروازے پر بہت سے افسران تلواریں نکال کر آنے
سائے کھڑے ہو کر۔ تلواروں کے کوزوں کو اُدھنچا ملا کر محراب سی بنایتے
ہیں اور دو لہما ڈہن اس کے نیچے سے گزرتے ہیں۔

تلواروں کی شادی۔ (۱۔ محاورہ) یہ انگریزی محاورہ ہے۔ جب کسی
فوجی افسر کی شادی ہوتی ہے تو رسم نکاح کے بعد جب دو لہما ڈہن گرجے
سے نکلے ہیں تو دروازے پر بہت سے افسران تلواریں نکال کر آنے
سائے کھڑے ہو کر۔ تلواروں کے کوزوں کو اُدھنچا ملا کر محراب سی بنایتے
ہیں اور دو لہما ڈہن اس کے نیچے سے گزرتے ہیں۔

تلواروں کی شادی۔ (۱۔ محاورہ) یہ انگریزی محاورہ ہے۔ جب کسی
فوجی افسر کی شادی ہوتی ہے تو رسم نکاح کے بعد جب دو لہما ڈہن گرجے
سے نکلے ہیں تو دروازے پر بہت سے افسران تلواریں نکال کر آنے
سائے کھڑے ہو کر۔ تلواروں کے کوزوں کو اُدھنچا ملا کر محراب سی بنایتے
ہیں اور دو لہما ڈہن اس کے نیچے سے گزرتے ہیں۔

تلواروں کی شادی۔ (۱۔ محاورہ) یہ انگریزی محاورہ ہے۔ جب کسی
فوجی افسر کی شادی ہوتی ہے تو رسم نکاح کے بعد جب دو لہما ڈہن گرجے
سے نکلے ہیں تو دروازے پر بہت سے افسران تلواریں نکال کر آنے
سائے کھڑے ہو کر۔ تلواروں کے کوزوں کو اُدھنچا ملا کر محراب سی بنایتے
ہیں اور دو لہما ڈہن اس کے نیچے سے گزرتے ہیں۔

تلواروں کی شادی۔ (۱۔ محاورہ) یہ انگریزی محاورہ ہے۔ جب کسی
فوجی افسر کی شادی ہوتی ہے تو رسم نکاح کے بعد جب دو لہما ڈہن گرجے
سے نکلے ہیں تو دروازے پر بہت سے افسران تلواریں نکال کر آنے
سائے کھڑے ہو کر۔ تلواروں کے کوزوں کو اُدھنچا ملا کر محراب سی بنایتے
ہیں اور دو لہما ڈہن اس کے نیچے سے گزرتے ہیں۔

تلواروں کی شادی۔ (۱۔ محاورہ) یہ انگریزی محاورہ ہے۔ جب کسی
فوجی افسر کی شادی ہوتی ہے تو رسم نکاح کے بعد جب دو لہما ڈہن گرجے
سے نکلے ہیں تو دروازے پر بہت سے افسران تلواریں نکال کر آنے
سائے کھڑے ہو کر۔ تلواروں کے کوزوں کو اُدھنچا ملا کر محراب سی بنایتے
ہیں اور دو لہما ڈہن اس کے نیچے سے گزرتے ہیں۔

تلواروں کی شادی۔ (۱۔ محاورہ) یہ انگریزی محاورہ ہے۔ جب کسی
فوجی افسر کی شادی ہوتی ہے تو رسم نکاح کے بعد جب دو لہما ڈہن گرجے
سے نکلے ہیں تو دروازے پر بہت سے افسران تلواریں نکال کر آنے
سائے کھڑے ہو کر۔ تلواروں کے کوزوں کو اُدھنچا ملا کر محراب سی بنایتے
ہیں اور دو لہما ڈہن اس کے نیچے سے گزرتے ہیں۔

تلواروں کی شادی۔ (۱۔ محاورہ) یہ انگریزی محاورہ ہے۔ جب کسی
فوجی افسر کی شادی ہوتی ہے تو رسم نکاح کے بعد جب دو لہما ڈہن گرجے
سے نکلے ہیں تو دروازے پر بہت سے افسران تلواریں نکال کر آنے
سائے کھڑے ہو کر۔ تلواروں کے کوزوں کو اُدھنچا ملا کر محراب سی بنایتے
ہیں اور دو لہما ڈہن اس کے نیچے سے گزرتے ہیں۔

تلواروں کی شادی۔ (۱۔ محاورہ) یہ انگریزی محاورہ ہے۔ جب کسی
فوجی افسر کی شادی ہوتی ہے تو رسم نکاح کے بعد جب دو لہما ڈہن گرجے
سے نکلے ہیں تو دروازے پر بہت سے افسران تلواریں نکال کر آنے
سائے کھڑے ہو کر۔ تلواروں کے کوزوں کو اُدھنچا ملا کر محراب سی بنایتے
ہیں اور دو لہما ڈہن اس کے نیچے سے گزرتے ہیں۔

تلوار کا کستا۔ (۱۔ محاورہ) تلوار کا خم ہونا۔ لپکتا۔ ٹھکتا۔

تلوار کا کھیت۔ لڑائی کا میدان۔ میدان جنگ۔

تلوار کا کھیت ہر انہیں۔ (دشل) جس جگہ جنگ ہو چکی ہو۔ وہاں
کاشت کاری نہیں ہو سکتی۔

تلوار کا کھٹ۔ (۱۔ مذ) وہ جگہ۔ جہاں سے تلوار میں خم شروع ہوتا ہے۔

تلوار کا کھا ڈھیر جاتا ہے (بات) زبان کا نہیں بھرتا۔ (دشل)
عص و تشین کا اثر دل پر ہے کبھی نہیں جاتا۔ کبھی کی رنج وہ بات کبھی
نہیں بھولتی۔

تلوار کا منہ۔ (۱۔ مذ) تلوار کی باڑھ۔

تلوار کا مینہ پرنا۔ (۱۔ محاورہ) بہت شیش زنی ہونا۔

تلوار کا وار۔ تلوار کا حملہ۔

تلوار کا پاٹھ۔ (۱۔ مذ) تلوار کا حملہ۔

تلوار پر جانا۔ (۱۔ محاورہ) تلوار میں دندالے پڑ جانا۔

تلوار کرنا۔ (۱۔ محاورہ) تلوار سے حملہ کرنا یا لڑنا۔ شجاعت یا بہادری
دکھانا۔ تلوار مارنا۔

تلوار (کستا) کسانا۔ (۱۔ محاورہ) تلوار جھکا کر جا پھینا۔

تلوار کو پتھر جٹانا۔ (۱۔ محاورہ) تلوار سان پر رکھنا۔ تلوار تیز کرنا۔

تلوار کو جانی دینا۔ (۱۔ محاورہ) تلوار کے وار سے پھینا۔

تلوار پھینچنا۔ (۱۔ محاورہ) تلوار سوتنا۔

تلوار کی آب۔ (۱۔ مٹ) تلوار کی چمک یا آب داری۔

تلوار کی آج۔ (۱۔ مٹ) تلوار کی چمک۔ گرمی یا تیزی۔

تلوار کی آج گرمی ہوتی ہے۔ (دشل) تلوار سے سب ڈرتے ہیں۔
کوئی نتیجہ نہیں کر سکتا۔

تلوار کی آج کے سامنے کوئی بولا ہی پھرتا ہے۔ (دشل) تلوار
کے مقابلے پر کوئی بہادری نہیں پھرتا ہے۔

تلوار کی (بار) دھار۔ (۱۔ مٹ) تلوار کا وہ باریک تیز کنارہ جو کاٹتا ہے۔

تلوار کی بھنگار۔ (۱۔ مٹ) تلواروں کے ٹکڑے کی آواز۔

تلوار کی چمک۔ (۱۔ صفت) تلوار کی آب داری۔

تلوار کی ٹوت۔ (۱۔ مٹ) تلوار سے قتل ہونا۔

تلوار کی ناب۔ (۱۔ مٹ) تلوار کا وہ نشان جو نوک سے قبضے تک
دونوں طرف ہوتا ہے۔

تلوار کے (تلے) پچھے دم تو لینے دو۔ (دشل) (۱) ذرا انتظار کرو۔

تلوار کے قبضے پر پاتھ ڈالنا۔ (۱۔ محاورہ) تلوار نکالنے کے لیے
اس کے قبضے کو پکڑنا۔ جنگ کا ارادہ کرنا۔

تلوار کے گھاٹ اتارنا۔ (۱۔ محاورہ) تلوار سے قتل کر ڈالنا

تلوار کے منہ۔ تلوار کی باڑھ سے۔ تلوار سے۔

تلوار کے پاٹھ۔ (۱۔ محاورہ) تلوار چلانے کے طریقے۔ تلوار کے حملہ۔

تلوار پر جانا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) بہادری جاتی رہنا (۲) نامرد ہو جانا۔

(۳) مار جانا۔

تلوانی - (تل۔ دا۔ ای۔ ذہ۔ امث) تلائی۔ تولنے کی اُجرت۔
تلوٹ - (تل۔ وٹ) (ق۔ ا۔ مذ) لڈو کی ایک قسم، جو تیل اور گڑ سے بنائے جاتے ہیں۔
تلوری - (ت۔ لوری، ذہ۔ امث) ایک خوش آواز پڑیا۔
تلوریا یا **ہی بھلا**، **جورن** میں لکھا دیکھا گئے۔ (دخ) تلوار یا وہ ہے **بیری** کے ٹکڑے کرے اور آپ **ترت** بیج جاعے اور لڑائی میں دشمن کو قتل کرے اور خود بچ جائے۔
تلون - (ت۔ لون، ذہ۔ ا۔ مذ) (۱) رنگ بدلنا (۲) ایک حالت یا بات میں برقرار نہ رہنا (۳) چچیل پن چھوڑنا۔ اوجھل پن۔
تلون حیرت - (ح۔ صغ) ایسی طبیعت کے لیے آتا ہے جو ایک حالت پر ہیے **تلون مزاج** - (ح۔ صغ) غیر مستقل مزاج شخص، جو ایک بات پر قائم نہ رہے۔
تلون مزاجی - (ح۔ ف۔ امث) غیر مستقل مزاجی۔ بے استقلال۔
تلونٹا - (ت۔ لول، ذہ۔ ا۔ صغ) تیل کی طرف جھکا ہوا چراغ۔
تلویا - (تل۔ وی، یا۔ ذہ۔ ا۔ مذ) تولنے والا۔ تول۔
تلین - (تل۔ این، ذہ۔ ا۔ مذ) نرم کرنا۔ نرمی (۲) اصطلاح طب میں قبض دور کرنا۔ اجابت کھلانا۔
تلی - (ت۔ لی، ذہ۔ امث) پیندا۔ پیندی۔
تلی - (ت۔ لی، ذہ۔ ا۔ صغ) (۱) جسم میں ایک اندرونی عضو۔
تلی (۲) تلی۔ ایک قسم کا دانہ جس کا تیل نکالتے ہیں۔
تلی کا بڑھنا - بخار کی وجہ سے تلی بڑھی ہو جانا۔
تلی کا تیل - بیٹھائیں۔
تلی - (ت۔ لی، ذہ۔ ا۔ صغ) (۱) جلا سے کو کچی، مصوڑی کوچی۔ ایک سلاح جسے پختی ہوئی دھات میں ڈال کر دیکھتے ہیں کہ کبھی طرح سب پگھل گئی ہے یا نہیں (۲) (صغ) تلی ہوئی۔
تلی بوئی یا **شوریا** - (دش) خراج میں روک ٹوک ہونے کے موقع پر بولتے ہیں۔ بڑی کفایت شاری۔
تلی - (ت۔ لے، ذہ۔ ا) (۱) اُوپر کی ضد۔ پیچھے۔ زیرِ تخت۔ زمین پر۔
تلی آتا۔ (دس۔ مرک، ذہ۔ ا) نیچے آنا۔ اُوپر سے اُترنا (۲) ماتحت ہونا (۳) نقصان اٹھانا (۴) کسی چیز کے نیچے دب جانا (۵) کسی چیز کے سامنے میں آجانا (۶) زنا یا اِعلام کرنا۔
تلی اُوپر - (صغ) (۱) ترو بالا۔ زیر و زبر۔ اُوپر نیچے (۲) پلے درپلے لگانا۔
تلی متواتر (۳) ایک کے اُوپر ایک۔ یکے بعد دیگرے۔
تلی اُوپر کے۔ وہ نیچے جو ایک دوسرے کے بعد پیدا ہوں۔
تلی پڑنا - (۱) عاودہ (۲) زمین پر لیٹنا (۳) نیچے لیٹنا۔ آگے پڑنا (۴) زنا یا اِعلام کرنا۔
تلی پڑی کا مول کیا۔ (دش) جو چیز قبضے میں ہو۔ اس کی قدر نہیں ہوتی۔
تلی تلیے دکھنا۔ (۱) عاودہ، نیچی نظروں سے دکھنا۔ آنکھ بڑا کر دیکھنا۔
تلی تلیں اُوپر ہیں۔ (دش) ترو بالا ہونے کے موقع پر کہتے ہیں۔
تلی مانگ اُوپر مانگ۔ (دش) غریب بانکا۔ مانگوں سے ننکا۔

اُوپر مانگ نکل ہوئی۔
تلی دھرتی۔ اُوپر رام۔ (دش) قسم کھانے کے موقع پر کہتے ہیں۔
تلی کا بات (تجھ بھاری ہے۔ (دش) بیوی زبردست ہے۔
تلی کا دم تلی زہ گیا، اُوپر کا اُوپر۔ (۱) عاودہ، کوئی بڑی یادداشت خیر سن کر اکتے میں آجاتا۔
تلی کی دنیا (زمین) اُوپر ہونا۔ (۱) عاودہ، انقلاب عظیم ہونا۔
تلی کی زمین اُوپر کر دینا۔ (۱) عاودہ، گڑ بڑ ماریاں گھرا دینا۔
تلی کے دانست تلی، اُوپر کے اُوپر رہ جانا۔ (۱) عاودہ، ہیرت سے مزہ کھلا رہ جانا۔
تلی کے سانس تلی، اُوپر کے سانس اُوپر۔ (۱) عاودہ، حیران رہ رہ جانے کے موقع پر کہتے ہیں۔
تلی گھیرا اُوپر سہرا۔ (دش) گھیرا پھلے کو کہتے ہیں۔ ایسی شادی پر طنز ہے۔ جس میں لڑکی کو کچھ نہ ملے۔
تلی دانی۔ (ت۔ لے۔ ذہ۔ ا۔ مذ) (۱) امث) سینے پر دہنے کا سامان بچیز رکھنے کی چھوٹی تمبیل۔
تلیا۔ (ت۔ لی، یا۔ ذہ۔ امث) چھوٹا تالاب۔
تلیلی۔ (ت۔ لے۔ ذہ۔ ا۔ صغ) (۱) تلیا پیندا (۲) دامن کوہ (۳) پکا فرش (۴) نواجی۔ اطراف (۵) ہندوؤں میں مڑدے کے گفن کا وہ کپڑا۔ جو اس کے نیچے بچایا جاتا ہے۔
تلی۔ (تل۔ یز، ذہ۔ ا۔ مذ) ایک چھوٹا سا پرندہ۔ اُبکتہ۔
تلی۔ (ت۔ لین، ذہ۔ ا) تلی۔ (ق) تلی۔ بیچے۔
تلی۔ (ت۔ یس، ذہ۔ ا) تلی۔ (ق) لہو بہ لہ۔
تلی۔ (ت۔ یس، ذہ۔ ا۔ مذ) عاودہ کی اصطلاح میں پھت کی اُوچکان۔
تلی۔ (ت۔ یس، ذہ۔ ا) فرما بنا روار۔ مطیع منسوب۔
تلی۔ (ت۔ یس، ذہ۔ ا۔ صغ) ہولی کا تیسرا دن۔

ت۔ م

تم۔ (ذہ۔ ذہ) مخاطب، تو کی جمع۔ تعظیماً واحد کو بھی کہتے ہیں۔
تم اُوپر تلے کھاؤ میں مرچیں لگانے۔ (۱) (دش) ایک تو پہلے ہی تکلیف تمی تم اور تکلیف دینے لگے۔
تم ایسے (جیسے) بہتوں کو میں پچا چکا ہوں۔ (۱) (دش) میں نے تمہارے جیسے بہت دیکھے ہیں اور تم سے زیادہ چالاک ہوں۔
تم بھی کیا ہو۔ (۱) عاودہ، عجیب آدمی ہو۔
تم اُبھی قہو گے کہ ہمیں پڑھ لے دو۔ (۱) (دش) بے وقوفی کی بات کرنے پر کہتے ہیں۔
تم پوچھنے والے کون۔ (۱) عاودہ، ذل در معقولات کرنے والے
تم تو مجھے پھڑپھڑ گے۔ (دش) دوسرے کو کسی بات کے لیے جو اس کے خیال میں بھی نہ ہو۔ اس کے اعراض سے کہتے ہیں۔

تم جانو تمہارا کام جانے۔ (دش) جو چاہو کرو میں دخل نہیں دینے کا۔
تم ڈال ڈال میں پات پات۔ (اش) میں تم سے زیادہ
جالاک ہوں۔

تم روٹھے ہم چھوٹے۔ (اش) ناخوشی سے بے پروائی کے موقع پر
کہتے ہیں۔ تم ناراض ہو تو میں بھی پروا نہیں۔

تم سے اللہ کی سیماہ۔ (اش) تمہاری مزارتوں سے خدا محفوظ رکھے!
تم سے پھرے تو خدا سے پھرے۔ (دش) تم سے برگشتہ ہونا خدا
کے خلاف ہو جانے کے برابر ہے۔

تم کا ٹومیری ناگ اور کانی آ۔ (اش) ہندی عورت کے متعلق کہتے
میں نہ چھوڑوں اپنی بانی آ میں کہ چاہے تم جو سزا دو میں اپنی
مادت سے باز نہ آؤں گی۔

تم کس کھیت کی مولیٰ (کے بھروسے) ہو۔ (اش) تمہاری کیا
حیثیت ہے۔ بالکل بے حیثیت اور بے حیثیت ہو۔

تم کو قسم ہے۔ (روزمرہ) دوسرے سے کوئی بات کرنے یا کسی بات سے
روکنے کے موقع پر کہتے ہیں۔

تم کہیں اور ہم کہیں۔ (اش) علیحدہ ہو جائیں گے۔ پھر ملنے کا موقع
نہیں ملے گا۔

تم کیا ہو۔ (روزمرہ) بے حقیقت ہو۔ کچھ بھی نہیں۔
تم نے اڑا میں ہم نے بھون بھون کھائیں۔ (دش) ہم تم سے
زیادہ جالاک ہیں۔ تمہاری چالیں سمجھتے ہیں۔ ہم سے تم چالیں نہیں
چل سکتے۔

تم نے کہا اور میں ہم نے مان لیا۔ (دش) تمہارا کوئی اعتبار نہیں
تم ہمیں بلاؤ گے تو کیا اگلاؤ گے؟ (دش) ہر حال میں ایسے ہی
تم جہان سے گھر آؤ گے تو کیا لاؤ گے؟ (خاندے کی سوچنا خود غرض
کے متعلق کہتے ہیں۔

تم جو کس لائق۔ (اش) تمہاری کیا مجال۔ تمہاری حیثیت کیا ہے۔
تم ہی تم ہو۔ (اش) تمہارا بڑا رسوخ ہے۔ تم سب کچھ ہو۔

تمہا پیل۔ (دش) ماہیل، (دش) ۱۔ مذ) برابر ہونا (۲) مشابہ ہونا۔ مانند ہونا۔
تمہا پیل۔ (دش) ماہیل، (دش) ۱۔ مذ) شمال کی برج (۱) تصویریں۔ صورتیں (۲)
زمان شاہی۔

تمہا جا۔ (دش) ماہجا، (دش) ماہجہ، (دش) ۱۔ مذ) طہا پیل۔ تھپڑ۔
تمہا جا اٹھانا۔ (اش) عمارتہ) تھپڑ مارنے کا قصد کرنا۔

تمہا جا مارے منہ لال رکھتے ہیں۔ (دش) (۱) جن کو نقصان پہنچایا
گیا ہو وہ بھی نہیں بولتے (۲) ان لوگوں کے متعلق بھی کہتے ہیں جو عزت
میں آرد بنانے رکھتے ہیں۔

تمہا خو۔ (دش) ماہخو، (دش) ۱۔ مذ) تمہا کو۔ تمکو۔
تمہا دی۔ (دش) ماہدی، (دش) ۱۔ مذ) مدت۔ (۲) عرصہ (۲) بہت وقت
عرصہ دراز (۳) قانون میں میعاد جس کے گزرنے کے بعد دیوانی ناش
کا اختیار نہ رہے جس ساحت مقدمہ دیوانی۔

تمہا دی تعارض ہونا۔ (اش) مدت گزرنا جو عوی دار کرنے کا حق نہیں ہے۔

تمہا گز۔ (دش) ماہگز، (دش) ۱۔ مذ) بیماری کا بہانہ کرنا۔ بیمار بننا۔
تمہا زت۔ (دش) ماہزت، (دش) ۱۔ مذ) گز۔ شدت کی گری۔
تمہا زت آفتاب۔ (دش) ماہزت، (دش) ۱۔ مذ) سورج کی گری۔

تمہا شا۔ (دش) ماہشا، (دش) ۱۔ مذ) باہم مل کر پیدل چلنا (۲) سیر تفریح۔
(۳) دید نظر (۴) مزہ۔ لطف (۵) کھیل (۶) مجمع۔ ہجوم (۷)
ہنگامہ (۸) مذاق۔ ٹھٹھا (۹) عجیب بات (۱۰) غاشش۔ دکھاوا۔
(۱۱) سوانگ۔ نالگ۔ کرتب۔ پیل۔

تمہا شانانا۔ (اش) عمارتہ) (۱) ہنسی اٹانا۔ مذاق اڑانا (۲) سوانگ بنانا نقل کرنا۔
تمہا شاہن جانا۔ (اش) عمارتہ) ایسا ہو جانا کہ لوگ دیکھنے لگیں۔ تابل
تنبیک ہو جانا۔

تمہا شاہن۔ (دش) عمارتہ) (۱) عمارت۔ (۲) عمارت۔ (۳) عمارت کی عورت۔
تمہا شاہن۔ (دش) عمارتہ) (۱) عمارت۔ (۲) عمارت۔ (۳) عمارت کی عورت۔

تمہا شاہن۔ (دش) عمارتہ) (۱) عمارت۔ (۲) عمارت۔ (۳) عمارت کی عورت۔
تمہا شاہن۔ (دش) عمارتہ) (۱) عمارت۔ (۲) عمارت۔ (۳) عمارت کی عورت۔

تمہا شاہن۔ (دش) عمارتہ) (۱) عمارت۔ (۲) عمارت۔ (۳) عمارت کی عورت۔
تمہا شاہن۔ (دش) عمارتہ) (۱) عمارت۔ (۲) عمارت۔ (۳) عمارت کی عورت۔

تمہا شاہن۔ (دش) عمارتہ) (۱) عمارت۔ (۲) عمارت۔ (۳) عمارت کی عورت۔
تمہا شاہن۔ (دش) عمارتہ) (۱) عمارت۔ (۲) عمارت۔ (۳) عمارت کی عورت۔

تمہا شاہن۔ (دش) عمارتہ) (۱) عمارت۔ (۲) عمارت۔ (۳) عمارت کی عورت۔
تمہا شاہن۔ (دش) عمارتہ) (۱) عمارت۔ (۲) عمارت۔ (۳) عمارت کی عورت۔

تمہا شاہن۔ (دش) عمارتہ) (۱) عمارت۔ (۲) عمارت۔ (۳) عمارت کی عورت۔
تمہا شاہن۔ (دش) عمارتہ) (۱) عمارت۔ (۲) عمارت۔ (۳) عمارت کی عورت۔

تمہا شاہن۔ (دش) عمارتہ) (۱) عمارت۔ (۲) عمارت۔ (۳) عمارت کی عورت۔
تمہا شاہن۔ (دش) عمارتہ) (۱) عمارت۔ (۲) عمارت۔ (۳) عمارت کی عورت۔

تمہا شاہن۔ (دش) عمارتہ) (۱) عمارت۔ (۲) عمارت۔ (۳) عمارت کی عورت۔
تمہا شاہن۔ (دش) عمارتہ) (۱) عمارت۔ (۲) عمارت۔ (۳) عمارت کی عورت۔

تمہا شاہن۔ (دش) عمارتہ) (۱) عمارت۔ (۲) عمارت۔ (۳) عمارت کی عورت۔
تمہا شاہن۔ (دش) عمارتہ) (۱) عمارت۔ (۲) عمارت۔ (۳) عمارت کی عورت۔

تمہا شاہن۔ (دش) عمارتہ) (۱) عمارت۔ (۲) عمارت۔ (۳) عمارت کی عورت۔
تمہا شاہن۔ (دش) عمارتہ) (۱) عمارت۔ (۲) عمارت۔ (۳) عمارت کی عورت۔

تمہا شاہن۔ (دش) عمارتہ) (۱) عمارت۔ (۲) عمارت۔ (۳) عمارت کی عورت۔
تمہا شاہن۔ (دش) عمارتہ) (۱) عمارت۔ (۲) عمارت۔ (۳) عمارت کی عورت۔

تمہا شاہن۔ (دش) عمارتہ) (۱) عمارت۔ (۲) عمارت۔ (۳) عمارت کی عورت۔
تمہا شاہن۔ (دش) عمارتہ) (۱) عمارت۔ (۲) عمارت۔ (۳) عمارت کی عورت۔

تمہا شاہن۔ (دش) عمارتہ) (۱) عمارت۔ (۲) عمارت۔ (۳) عمارت کی عورت۔
تمہا شاہن۔ (دش) عمارتہ) (۱) عمارت۔ (۲) عمارت۔ (۳) عمارت کی عورت۔

تمام شدہ - ختم ہو گیا۔ عموماً کتاب کے خاتمے پر لکھتے ہیں۔
تمام اختیار - (رج-صف) خالص۔ بے میل۔ جو کسوٹی پر پورا اُترے۔
 (۲) مٹکار۔
تمام کرنا - (مص-مرکب) (۱) ختم کرنا۔ پورا کرنا۔ مکمل کرنا (۲) مار ڈالنا۔
تمام وکمال - (رج-ف-صف) (۱) مکمل۔ کُل۔ سب کا سب۔ پورے طور سے (۲) کھول کے۔ پوست کندہ۔ واضح طور پر۔
تمام (ہو جانا) - ہونا۔ (۱) محاورہ (۱) پورا ہونا۔ آخر ہونا (۲) مرجانا۔ (۳) خرچ ہو جانا (۴) بچھنا۔ ٹھنڈا ہونا۔
تمامی - (ت-ما-جی) (ف-۱) (مث) (۱) تکمیل (۲) کمال (۳) انجام۔ آخر۔ خاتمہ (۴) کُل۔ تمام (۵) ایک قسم کا ریشمی کپڑا۔ اطلس۔
تہانا - (ت-ما-نا) (وہ میں) گیل کرنا۔ تم دینا۔
تہانا - (ت-ما-نا) (وہ میں) روٹی یا دان کو صاف کرنا۔ پھونانا۔
تہائی - (ت-ما-ای) (وہ) (مث) روٹی صاف کرنے کی مزدوری۔
تہا کوڑ - (تم-ما-کو) (ڈالنا) (مذا) مشہور پودا جس کے پتے ٹھٹھے میں پیٹے اور پان کے ساتھ ٹھانے میں کام آتے ہیں۔
تھکالو - (تم-با-لو) (ق-۱) (مذا) لوٹا۔ بگڑی۔
تھبو - (تم-بو) (وہ) (مذا) نیمبر۔ شامیانہ۔
تھبول - (تم-بول) (ف-۱) (مذا) بان۔ دیکھتے تھبول۔
تھبول (Tombola) - (تم-بولا) (انگ) (۱) (مذا) مخزنی طرز کا جوا۔ لاٹری۔
تھبت - (تم-ت) (رج) ختم ہوئی۔ پوری ہوئی۔
تھتھ - (ت-ت-ت) (تج-۱) (مذا) (۱) فائدہ حاصل کرنا (۲) پھیل پانا (۳) استعمال کرنا (۴) فائدہ۔ نفع۔
تھتھات ویوی - (ت-ت-ت) (ت-ع-ت) (وی-وی) (رج) (۱) دنیا کے فائدے۔
تھتھٹھ - (تم-تھٹھ) (ق-۱) (مذا) ہنگامہ چہل۔
تھتھانا - (تم-ت-نا) (وہ) (مذا) (۱) دھوپ کی گرمی یا بخار کے باعث چہرہ سرخ ہو جانا (۲) چکنا۔ جھگکا نا (۳) گرم ہونا۔
تھتھ ہتھ - (تم-ت-ت) (ما-ہتھ) (وہ) (۱) گرمی یا بخار کی وجہ سے چہرے کی سرخی (۲) چمک دک (۳) گرمی۔ حرارت۔
تھتھال - (تم-تھال) (رج-۱) (مث) (۱) پیکر صورت (۲) فرمان شاہی۔
تھتھتھ - جمع و تمثال۔
تھتھتھ - (ت-تھتھ) (ث-۱) (مذا) (۱) مشابہ یا مطابقت ہونا (۲) مثال دینا۔ ضرب التمثیل کرنا۔ تشبیہ دینا۔
تھتھتھتھ - (تم-تھتھ) (رج-۱) (مث) (۱) تشبیہ دینا۔ مشابہ کرنا (۲) تشبیہ مثال دینا۔
تھتھتھتھتھ - (ت-تھتھتھتھ) (مذا) (۱) جمع۔ تہنیلات۔
تھتھتھتھتھ - (تم-تھتھتھتھ) (رج) (مث) (۱) تشبیہ کے طور پر۔
تھتھتھتھتھتھ - (رج-ف-۱) (مذا) تشبیہ کی تعین۔ منظر ڈرانا۔ جھوٹا ڈرامہ۔
تھتھتھتھتھتھتھ - (رج-۱) (مث) (۱) بڑی کرنا۔ خدا کی بزرگی کی تعریف کرنا۔
تھتھتھتھتھتھتھتھ - (رج-۱) (مث) (۱) کم کرنا۔ پاک کرنا (۲) جانچ۔ بحث۔

تھتھتھ - (ت-تھتھ) (رج-۱) (مذا) (۱) اہلی کا درخت۔
تھتھتھتھ - (ت-تھتھتھ) (رج-۱) (مذا) (۱) سریشی۔ بنوادت (۲) گتھی۔ نافزانی۔
تھتھتھتھتھ - (ت-تھتھتھتھ) (رج-۱) (مث) (۱) عادت ڈالنا۔ خوگر کرنا (۲) ہش۔
تھتھتھتھتھتھ - (ت-تھتھتھتھتھ) (رج-۱) (مذا) (۱) مسوہ پن۔ ہنسی۔ مذاق۔ ٹھٹھول۔ کھلی۔
تھتھتھتھتھتھتھ - (ت-تھتھتھتھتھتھ) (رج-۱) (مذا) (۱) گرفت۔ پکڑ (۲) اقرار نامہ۔
تھتھتھتھتھتھتھتھ - (ت-تھتھتھتھتھتھتھ) (رج-۱) (مذا) (۱) سونے چاندی وغیرہ پر مہر (۲) مہر سلطانی۔
تھتھتھتھتھتھتھتھتھ - (ت-تھتھتھتھتھتھتھتھ) (مذا) (۱) نشان ہو جانے والے جگہ ہیں (۵) تجارتی نشان (۶) سند۔ معافی کی سند (۷) معافی یا انعامی زمین (۸) سولے اور چاندی کا بنا ہوا نشان (۹) انعام کے طور پر دیا جاتا ہے (۹) ریکو۔
تھتھتھتھتھتھتھتھتھتھ - (ت-تھتھتھتھتھتھتھتھتھ) (مذا) (۱) محصول۔ چنگی (۲) ڈپلوما۔ نشان۔ جو حاکم، زمیندار، پٹیل یا کالج وغیرہ کی طرف سے دیا جاتا ہے۔
تھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھ - (ت-تھتھتھتھتھتھتھتھتھتھ) (رج-۱) (مذا) (۱) طاقت رکھنا۔ اختیار کرنا۔ قابو میں رکھنا (۲) طاقت۔ اختیار۔ قابو۔
تھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھ - (تم-تھتھتھتھ) (رج-۱) (مث) (۱) قدرت۔ اختیار۔ حکومت زور (۲) غرور۔ ٹھنڈ (۳) شان۔ شوکت۔
تھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھ - (تم-تھتھتھتھتھ) (رج-۱) (مث) (۱) طاقت۔ زور (۲) مرتبہ۔ رتبہ (۳) وقار۔ عزت۔
تھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھ - (ت-تھتھتھتھتھتھ) (رج-۱) (مذا) (۱) نرمی۔ ملائمت (۲) خوشامد۔ چالوسی۔ لچوتھ۔
تھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھ - (تم-تھتھتھتھتھتھ) (رج-۱) (مث) (۱) کسی کو کسی چیز کا مالک کر دینا۔
تھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھ - (تھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھ) (رج-۱) (مث) (۱) کسی کو منقول یا غیر منقول جائیداد کا مالک بنایا گیا ہو۔
تھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھ - (ت-تھتھتھتھتھتھتھ) (رج-۱) (مذا) (۱) فرمان کا مخفف۔ دس ہزار (۲) رسالہ پیش (۳) سواروں کا دستہ (۴) ایک طلائف سکے جو سڑے چار روپے کے برابر ہوتا تھا۔
تھ - (رج-۱) (مذا) (۱) جمع کرنا۔
تھ - (ت-تھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھ) (رج-۱) (مث) (۱) رسالہ۔ رسالے کا مکان دار۔
تھ - (ت-تھ) (رج-۱) (مث) (۱) رسالہ کی نگرانی۔ رسالہ داری۔
تھ - (ت-تھ) (رج-۱) (مث) (۱) خواہش۔ آرزو۔ شوق۔ استیقا۔
تھ - (ت-تھ) (رج-۱) (مذا) (۱) خواہش پوری ہونا۔
تھ - (ت-تھ) (رج-۱) (مث) (۱) ایک قسم کی چھوٹی بندوق۔ دیکھو۔
تھ - (ت-تھ) (رج-۱) (مذا) (۱) چھوٹا مسواک۔
تھ - (ت-تھ) (رج-۱) (مذا) (۱) پانی کا مومیں مارنا۔ ہلکے پانی کا جوش و خروش۔

تہ تیغ ہوا۔ (ع. ۱۔ صفت) ہوا کا زور۔
 ٹھوکر۔ (رث. ٹوکڑ) (ع. ۱۔ مذ) (۱) شیوں کا ایک ہمینہ۔ جو جلائی یا اسٹھ کے
 مطابق ہوتا ہے (۲) عجازاً گرمی کی شدت۔
 ٹھول۔ (رث. ٹوڑ، ڈول، زع۔ ۱۔ مذ) دولت مندی۔ مال داری۔
 تمہارا۔ (رث. تمہا، را) (ع. ۱۔ مذ) تم سب کا۔ آپ کا۔
 تمہارا سر۔ تمہارا کچھ۔ (کلمہ لغوی) جب کوئی شخص کسی کے مزاج کے
 خلاف کوئی بات کہتا یا بوجھتا ہے تو اس کے جواب میں کہا جاتا ہے۔
 تمہارا مال سو تمہارا مال ہمارا مال سو ہیں۔ (۱) ایشل، خود غرض
 آدمی کی نسبت کہتے ہیں جو دوسروں کا مال تو لے لے اور اپنا مال دینا ہوتو
 ہنس کر مال دے۔
 تمہارے فرشتوں کو بھی خبر نہیں۔ (۱) عبادہ، تمہیں کچھ خبر ہی نہیں۔
 تمہارے منہ کا کال ہمارے پیٹ کا ادھار۔ (ایشل، تمہاری
 ذرا سی مدد ہمارے لیے بہت ہے۔
 تمہارے منہ میں خاک۔ (۱) دروزرہ (۱) اس شخص کی نسبت کہتے ہیں
 جو کسی کا برا چاہے۔
 تمہارے مرے دیس خاک۔ ہمارے مرے دیس پاک (مثل)
 فروتنی اور عاجزی کا ظاہر کرنے کو کہتے ہیں۔
 تمہارے منہ میں گھی شکر (۱) مثل) کوئی حسب خواہش بات کرے تو کہتے ہیں
 تمہاری۔ (رث. تمہا، ری) (ع. ۱۔ مذ) تم سب کی۔ آپ کی۔
 تمہاری اڑی میں کیا لگا ہے۔ (۱) مقولہ) نظر بد سے بچنے کے لیے
 حوریں کٹی ہیں۔
 تمہاری بات نہ اٹھائی جائے نہ دھری جائے۔ (۱) ایشل، تمہاری
 بات کا کوئی بھروسہ نہیں۔
 تمہاری یہ راہ۔ ہماری وہ راہ۔ (۱) مثل) (۱) ہمارا تمہارا کوئی تعلق
 نہیں (۲) ہمیں تمہاری کوئی پروا نہیں۔
 تمہید۔ (مجم. جمید) (ع. ۱۔ مذ) (۱) کسی مضمون کی اٹھان۔ کسی بات کا آغاز۔ کسی
 معاملے کی تقریب۔ کسی مضمون کا عنوان (۲) دیباچہ۔ مقصد۔ خطبہ کتاب۔
 مع. ۱۔ تمہیدات۔
 تمہید اٹھانا۔ (۱) عبادہ، کسی مضمون یا کسی بات کا عنوان شروع کرنا۔
 تمہید کرنا۔ (۱) عبادہ، کسی بات کا پیش کرنا کسی معاملے کی تقریب کرنا۔
 تمہیدیں باندھنا۔ مضمون یا باتیں پیش کرنا۔ بے معنی عذرات پیش کرنا۔
 تمہیدتی۔ (مجم. ہی، دی) (ع. ۱۔ مذ) صفت) شروع کا۔ ابتدائی۔
 تمیز۔ (رث. تمیز) (ع. ۱۔ مذ) (۱) تمیز کا محقق۔ (۱) شناخت۔ جانچ۔ پہچان۔
 (۲) فرق۔ تفاوت۔ امتیاز (۳) عقل۔ ہوش۔ دانش (۴) ادب۔ قاعدہ۔ اہلیت
 (۵) عقل سلیم (۶) علم غریب جو لفظ یا الفاظ کسی اسم یا فقرے سے شک یا ابہام
 رفع کریں۔
 تمیز دار۔ ذی شعور۔ لائق۔ ہوشیار۔ باہذب۔

ت۔ن

تن۔ (ذ. ۱۔ مذ) (۱) جسم۔ پتلا (۲) شخص۔ آدمی غرور۔

تن آساں۔ (ذ. صفت) آرام طلب۔ تن برور۔
 تن آسانی۔ (ذ. ۱۔ صفت) آرام طلبی۔ بدن کو تخلیف سے بچانا۔
 تن اجملا من سا لولا یطے کا سا جھک (۱) مثل) ریا کاروں کا مظہر
 تو سے تو کا کا بھلا جو اندر باہر ایک ہے۔ ریاکار۔ بگلے کا ظہر
 ہے۔ ظاہر میں تو سفید اور دلگت نما۔ مگر ہر وقت عمل پیکر ہونے کے لیے تیار۔
 ریاکار سے کو آچھا۔ جو اندر باہر سے کالا ہے۔ یعنی اس شخص سے جس
 کا اندر باہر ایک سا نہ ہو۔ وہ اچھا ہے۔ جو اندر باہر سے بڑا ہو۔
 تن بدن۔ (ذ. ۱۔ مذ) سا سا بدن۔ تمام بدن۔
 تن بدن اولاد ہو جانا۔ (۱) عبادہ، بدن ٹھنڈا ہو جانا جسم سرد ہو جانا۔
 تن بدن چھونک دینا۔ (۱) عبادہ، جلا دینا۔ جلن پیدا کر دینا۔ بخار
 کی حالت پیدا کر دینا۔
 تن بدن ڈھانک لینا۔ (۱) عبادہ، کپڑے پہن لینا۔ ستر پوشی کرنا۔
 تن بدن کا جوش نہ ہونا۔ (۱) عبادہ، (۱) اپنے آپ سے بے خبر ہونا۔
 مذہوشی ہونا (۲) پاگل اور دیوانہ ہونا۔
 تن بدن کی خبر نہ رہنا۔ (۱) عبادہ، محو ہونا۔ بے خبر ہو جانا۔
 تن بدن میں آگ (چھٹکننا) لگنا۔ (۱) عبادہ، سمت حقہ آنا۔
 تن بدن میں جان نہیں۔ نام زور اور خال۔ (۱) مثل) ناموزوں
 بات۔ طاقت ہونی چاہیے۔ نام کا کیا فائدہ۔
 تن بہ تقدیر۔ اپنے آپ کو تقدیر پر چھوڑنا۔ جب تدبیر کچھ بن نہ پڑے تو
 کہتے ہیں۔
 تن لے حال۔ (ذ. ۱۔ صفت) مردہ۔ لاش نش۔
 تن نے جان میں جان آنا۔ (۱) عبادہ، نئے سرے سے زندگی پیدا ہونا۔
 تن پتلا ہے خاک کا اسے دکھ مت بھول (۱) مثل) ہر ایک
 ایک دن ایسا ہوئے گا لے دھول میں دھول (۱) کرنا ہے اس
 بات کو بھی نہیں بھولنا چاہیے۔
 تن پرست۔ (ذ. ۱۔ صفت) جو ہر وقت کھانے پینے میں مشغول رہے۔
 تن پرستی۔ (ذ. ۱۔ صفت) ہر وقت کھانے پینے میں مشغول رہنا۔
 تن پرور۔ (ذ. ۱۔ صفت) تن کو پالنے والا کھانے پینے میں مشغول رہنے والا۔
 تن پروری۔ (ذ. ۱۔ صفت) (۱) آرام طلبی۔ پیش برستی (۲) خود غرضی۔
 تن نہیں لتا مستی ملے البتہ۔ (۱) مثل) مٹسی میں آرائش کا خیال ہے۔
 تن چھٹکننا۔ (۱) عبادہ، بدن جلنا۔ بخار ہونا۔
 تن پیٹ کا مزہ۔ (۱) مذ) اچھا پینے اور کھانے کا مزہ۔
 تن پیٹ کہاں رکھ کر آئیں۔ (۱) مثل) کھانے پینے کا خرچ ضروری
 ہے۔ کوئی منت خدمت لے تو کہتے ہیں۔
 تن تاجا (تازہ) قلندر راجہ۔ (۱) مثل) پیٹ بھرا ہوا ہو، تو قلندر بھی
 راجہ ہے۔ تن پرور کی نسبت کہتے ہیں۔
 تن تکیہ من بسرام آرام۔ (۱) مثل) قانع شخص کے لیے ہر جگہ آرام ہے۔
 تن تہنا۔ (ذ. ۱۔ صفت) اکیلا۔ تنہا۔
 تن دزست۔ (ذ. ۱۔ صفت) اجملا چنگا۔ صیح و سالم صحت مند۔ جسے کوئی

بیماری نہ ہو۔

تندرستی - دن (۱) صحت - سلامتی - غیریت - طبیعت کی درستی اور تندرستی ہونے کا نام ہے۔
تندرستی ہزار نعمت ہے - (۱) مولد صحت سے بہتر کوئی چیز نہیں۔
تین دہی - دن (۱) صحت - سستی - کوشش (۲) محنت - جہانتاشانی - جفاکشی۔
تین دے - من لے - (مثل) محنت کر اور کم۔

تین ڈھانگنا - (۱) محاورہ - ستر پوشی کرنا۔
تین زریب - (۱) مذ (۱) ایک قسم کا کپڑا جو تین لکھ سے زیادہ باریک تہا جو ہے (۲) ایک قسم کی صوری جو تین لکھ سے زیادہ باریک تہا تین سنگھی تو من سنگھی - (مثل) بدن کو آرام ہو یعنی صحت اچھی ہو اور کھانا پورا چھلے تو دل بھی خوش رہتا ہے۔

تین سنگھی تو پین ہے { (مثل) اگر صحت ہو تو زندگی آرام سے گزرتی ہے اور نہ ہر وقت انسان تکلیف میں رہتا ہے۔

تین سیتل ہو سیت سول { (مثل) دودھ بدن کو خوش کرتا ہے من سیتل ہو سیت سول اور دوست دل کو۔

تین سے لگنا - (۱) محاورہ (۱) فکر کرنا - خیال ہونا (۲) دل پر اثر ہونا۔
تین کو کپڑا نہ پیٹ کو روٹی - (مثل) بہت عزیز ہے۔
تین کو لگنا - بجز نور بدن ہونا۔

تین کی تپت بھانا - (۱) محاورہ - جھوٹے کو کھانا کھلانا۔
تین کی سکہ نہ رہنا - (۱) محاورہ - جوش و خواس قائم نہ رہنا۔
تین کھلنا - (۱) محاورہ - جسم لاغر یا ڈبلا ہونا۔

تین کن - (۱) مذ - جسم و جان - روح و قالب۔
تین کن میں ایک ہونا - (۱) محاورہ - بہت دوست ہونا - بڑا یار اور ہونا۔
تین کن بھر جانا - (۱) محاورہ (۱) سیری ہو جانا - دل بھر جانا (۲) خوش ہو جانا۔

تین من دھن وارنا - ہر چیز فدا کرنا - بدن - جان اور دولت متار کر دینا۔
تین من سے - دل و جان سے - پوری کوشش سے۔
تین کن کی سکہ بڈھ نہ رہنا - (۱) محاورہ (۱) بدحواس ہو جانا گھبرا جانا (۲) مدہوش ہو جانا - پاگل ہو جانا۔

تین من مارنا - (۱) محاورہ (۱) جسمانی اور نفسانی خواہشوں کو مارنا۔
تین من میں پھولے نہ سھانا - (۱) محاورہ - بہت خوشیاں منانا۔
تین من میں جان آنا - (۱) محاورہ (۱) جوش و خواس درست ہونا (۲) مزیت ہونا - تازگی ہونا۔

تین تو کس - (۱) مذ - بدن اور توانائی - قوت۔
تین ولوش کا آدمی - (۱) صفت - خراب اور طاقتور شخص - مضبوط بدن کا آدمی۔

تین - (۱) مذ (۱) صحت - گھاس جس سے چھترنا ہے۔
تین - (۱) مذ (۱) ایک درخت جس کی لکڑی سڑھتی ہے اور اس سے چھترنا ہے۔

تینا - (۱) مذ (۱) تین کا پھول جس سے زرد رنگ دیکھتے ہیں۔
تینا - (۱) مذ (۱) درخت کی پڑے اور پر کی شاخیں نکلنے تک کا حصہ۔
تینا - (۱) مذ (۱) صحت - جسم (۱) کھینچنا (۲) سیدھا ہو کر بیٹھنا (۳) پھیلنا۔

دراز ہونا (۲) پھولنا (۳) اٹھنا (۴) گھنڈ کرنا (۵) سینہ اٹھانا (۶) روٹھنا۔
تینا - (۱) مذ (۱) جوش جوانی - غرور جوانی۔
تینا - (۱) مذ (۱) جوش جوانی - غرور جوانی۔

تینا - (۱) مذ (۱) جوش جوانی - غرور جوانی۔
تینا - (۱) مذ (۱) جوش جوانی - غرور جوانی۔

تینا - (۱) مذ (۱) جوش جوانی - غرور جوانی۔
تینا - (۱) مذ (۱) جوش جوانی - غرور جوانی۔

تینا - (۱) مذ (۱) جوش جوانی - غرور جوانی۔
تینا - (۱) مذ (۱) جوش جوانی - غرور جوانی۔

تینا - (۱) مذ (۱) جوش جوانی - غرور جوانی۔
تینا - (۱) مذ (۱) جوش جوانی - غرور جوانی۔

تینا - (۱) مذ (۱) جوش جوانی - غرور جوانی۔
تینا - (۱) مذ (۱) جوش جوانی - غرور جوانی۔

تینا - (۱) مذ (۱) جوش جوانی - غرور جوانی۔
تینا - (۱) مذ (۱) جوش جوانی - غرور جوانی۔

تینا - (۱) مذ (۱) جوش جوانی - غرور جوانی۔
تینا - (۱) مذ (۱) جوش جوانی - غرور جوانی۔

تینا - (۱) مذ (۱) جوش جوانی - غرور جوانی۔
تینا - (۱) مذ (۱) جوش جوانی - غرور جوانی۔

تینا - (۱) مذ (۱) جوش جوانی - غرور جوانی۔
تینا - (۱) مذ (۱) جوش جوانی - غرور جوانی۔

تینا - (۱) مذ (۱) جوش جوانی - غرور جوانی۔
تینا - (۱) مذ (۱) جوش جوانی - غرور جوانی۔

تینا - (۱) مذ (۱) جوش جوانی - غرور جوانی۔
تینا - (۱) مذ (۱) جوش جوانی - غرور جوانی۔

تینا - (۱) مذ (۱) جوش جوانی - غرور جوانی۔
تینا - (۱) مذ (۱) جوش جوانی - غرور جوانی۔

تینا - (۱) مذ (۱) جوش جوانی - غرور جوانی۔
تینا - (۱) مذ (۱) جوش جوانی - غرور جوانی۔

باجا جس میں ستار کی طرح تین تار لگے ہوتے ہیں۔
 تلمو جچی - رقم - ڈوڑھی (ڈاڑھی) - مذ - تلمو بجانے والا۔
 تلمبول - (تم بول) (ذ - ۱۰ - مذ) (۱) پان (۲) بیاد شادی کی ایک رسم جس میں
 نیوتے کے طریق پر عزیز واقارب اور دوست احباب حسبِ مقدر
 نقدی دیتے ہیں۔

تلمبول آنا - (۱) محاورہ (لکام کے صدر سے گھوڑے کے منہ سے خون نکلنا۔
 تلمبول (باغلق) دینا - (۱) محاورہ (دیہاتی ہندوؤں میں بھلنے یا بھانجی
 کی شادی کے بعد رخصت ہوتے وقت بہن کی رشتے دار عورتوں کو
 نقدی دینا۔

تلمبول لینا - (۱) محاورہ (پان کا عرق پینا۔
 تلمبولن - (تم بولن) (ذ - ۱۰ - مذ) (۱) پناؤن - پان بیچنے والی عورت۔
 تلمبولی - (تم بولنی) (ذ - ۱۰ - مذ) پان بیچنے والا۔ پناؤنی۔
 تلمبہ - (ت - نب - ہ) (ذ - ۱۰ - مذ) (۱) قیامت - عبرت (۲) دھمکی - تنبیہ۔
 آگاہی - خبرداری۔

تنبیا نا - تنبیا جانا - (تنب - یا - نا) (تنب - یا - جانا) (ذ - ۱۰ - مذ) (۱) تانبے
 کارنگ ہو جانا (۲) تانبے کے برتن میں رکھے ہوئے کھانے میں تانبے
 کا مزہ ہو جانا (۳) نڈار ہوا سے گونا گویا کارنگ تانبے کا سا
 ہو جانا۔

تنبیلا - (ت - بی - لا) (ذ - ۱۰ - مذ) (۱) تانبے کے رنگ کا (۲) چہرے کا رنگ جو
 گرمی سے سرخی مائل ہو جائے (۳) گندمی (۴) سرخ رنگ کی گندم۔
 تنبیہ - (تم - بیہ) (ذ - ۱۰ - مذ) (۱) سرزنش - جھڑک - جھانٹش - ملامت (۲)
 نصیحت - ہدایت - خبرداری - آگاہی (۳) تاکید۔
 تن (پہن) - (تن - پن) (ذ - ۱۰ - مذ) (۱) کڑوؤں جیسے اور عزر کا
 انداز (۲) جیسے میں جل جھنی باتیں کرنا۔

تننت - (ذ - ۱۰ - مذ) (۱) ٹھیک - صحیح - درست (۲) معین - مقرر (۳) بردقت۔
 برغل (۴) ہو ہو (۵) عین وقت (۶) ضروری حصہ (۷) روح - جو ہر
 (۸) تانت کا مختلف تار دھاگا - ساز کا تار۔

تننت کار - مطرب - گویا - سازندہ۔
 تننت کے تننت - عین وقت پر کم فرصتی ہیں۔
 تننتا توڑی - (تن - تا - توڑی) (ذ - ۱۰ - مذ) (۱) کسی کا کسی سے غصے کے ساتھ
 علیحدگی جانا۔

تننتہ - (تن - تہ) (ذ - ۱۰ - مذ) (۱) ایک شاستر (۲) منتر - جادو - ٹونا۔
 تننتہ مننتہ - کمر فریب (ق)
 تننتری - (تن - تری) (ذ - ۱۰ - مذ) (۱) قوال - گویا - منی (۲) ایک قسم کا باجا۔
 پڑ جو جس میں تار لگے ہوتے ہیں۔

تننتن - (تن - تن) (ذ - ۱۰ - مذ) (۱) ستار اور تلمو وغیرہ کی آواز۔
 تننتنا - (تن - نا) (ذ - ۱۰ - مذ) (۱) شان و شوکت - کرد فر - دبدبہ - مطراق۔
 (۲) غصہ - خفا (۳) عزر - تکریم - عزت میں طغف ہے۔
 تننتنا سبتنا - تننتنا لورنا - تننتنا کرنا - (۱) محاورہ (۲) فکر کرنا (۳) ناک میں
 پڑنا۔

تننتے باز - (۱) مذ (۲) مغزور - عکبر (۳) نازک مزاج - نازک دماغ۔
 تننتنا نا - (تن - نا) (ذ - ۱۰ - مذ) (۱) چھیننا - جھٹنے میں ہونا - خفا ہونا۔
 (۲) شور و غل ہونا - ہڑ ہونا - کھڑکنا - جھنکا (۳) سننا نا۔
 تننتنا نا - (تن - نا) (ذ - ۱۰ - مذ) (۱) ستار یا سارنگ وغیرہ
 کے تار کو بجانا۔

تننتنا ہٹ - (تن - ہٹ) (ذ - ۱۰ - مذ) (۱) دم - سو جن (۲) سوزش
 پر در - تکلیف جو درم کی وجہ سے ہو - ٹپک - جلن۔
 تننتنا ہٹ - (تن - ہٹ) (ذ - ۱۰ - مذ) (۱) ناک بچنے کی آواز - تن تن۔
 تننتنی - (تن - نی) (ذ - ۱۰ - مذ) (۱) ایک قسم کا تار والا ساز - دھنارا (۲)
 پڑ جو بچوں کا ایک کھلنا جس میں پلنگہ لڑکی مانند تار لگا ہوتا ہے۔

تننتنی بجائے میاں کھانے سکرھی کہ [مثل] بھکاریوں کو بہت
 ڈوڑھی کی ایسی تپتی اب کے بچھے جھی کہ [مثل] بھکاریوں کو بہت
 آرام سے مانگ کھاتے اور عیش اُڑاتے ہیں۔ ڈوڑھی میں دیر ہو جانے
 کا ڈر ہوتا ہے۔ لے فکروں کی نسبت کہتے ہیں۔

تننتھا - (تن - تھا) (ذ - ۱۰ - مذ) (۱) طاقت - بل - زور - قوت۔
 تننتھاری - (تن - ہاری) (ذ - ۱۰ - مذ) (۱) جھکنا - لوٹنا۔
 تننتہا جانا - (تن - جانا) (ذ - ۱۰ - مذ) (۱) کچ جانا (۲) ناراض ہو جانا - خفا ہو جانا۔
 تننتہیم - (تن - ہم) (ذ - ۱۰ - مذ) (۱) ستاروں کے ذریعے پیشین گوئی کرنا۔

تننتہ کٹنا سی - علم نجوم (۲) ستاروں سے سعد و شس بتانا۔
 تننتخواہ - (تن - خواہ) (ذ - ۱۰ - مذ) (۱) درباہر مشاہیر - مالکان - وظیفہ (۲)
 رویہ جو ملازمت کے صلے میں دیا جائے۔
 تننتخواہ جاری ہونا - (۱) محاورہ (تننتخواہ بحال ہونا - تننتخواہ ملنے لگانا۔
 تننتخواہ ڈار - (ذ - ۱۰ - مذ) (۱) تننتخواہ پانے والا - ملازم - ڈوڑھ۔

تننتخواہ ذالی - ایک خاص رقم جو کسی ہمد سے دار کو ملاوہ تننتخواہ کے صلے۔
 تننتذ - (ذ - ۱۰ - مذ) (۱) تیز بھلا (۲) غضب ناک - غصیل (۳) سخت - شدید۔
 تننتذ زور (۵) تلخ - کڑوا۔
 تننتذو - (ذ - ۱۰ - مذ) (۱) بد مزاج - بد خو - پڑ پڑا - جلد ناراض ہونے والا۔

تننتذوئی - (ذ - ۱۰ - مذ) (۱) بد مزاجی - تیز مزاجی۔
 تننتذوئی - (ذ - ۱۰ - مذ) (۱) تیز رفتار - تیز قدم - تیز چلنے والا۔
 تننتذو بان - (ذ - ۱۰ - مذ) (۱) جلد جلد لانے والا۔
 تننتذو فہم - (ذ - ۱۰ - مذ) (۱) تیز فہم۔

تننتذو مزاج - (ذ - ۱۰ - مذ) (۱) تیز مزاج - معمولی بات پر بھڑک اُٹھنے والا۔
 تننتذو ہونا - (۱) محاورہ (تیز ہونا - ناراض ہونا - غصہ ہونا۔
 تننتذو - (تن - ذو) (ذ - ۱۰ - مذ) (۱) روٹی پکانے کی بھٹی - تنور۔
 تننتذو بھرننا (یا ٹٹنا) - (۱) محاورہ (بھٹ بھرننا - اچھا بڑا کھانا۔
 تننتذو بھوٹنا - (۱) محاورہ (تندو گرم کرنا) (۲) تندہ میں ایندھن ڈالنا۔

تننتذی - (تن - ذی) (ذ - ۱۰ - مذ) (۱) تیزی (۲) پڑ پڑا (۳) سختی - غصہ۔
 تننتذی - (۴) بد مزاجی (۵) شہوت۔
 تننتذیل - (تن - ذیل) (ذ - ۱۰ - مذ) (۱) تندہ والا - بڑے پیٹ والا۔
 تننتذی - (ذ - ۱۰ - مذ) (۱) مذہب - بھڑ۔

تندرنا - (تن، ڈونا، (ق) بھس) لڑنا - فساد کرنا۔
تندرنا - (ت، نر، ڈال، (ع، ا، ند) (۱) زوال، گھٹا ڈ۔ کمی - تخفیف، (۲) آنا۔ (۳) درجہ لڑنا۔

تندرہ - (ت، نر، زہ) (ع، ا، ند) (۱) خالص ہونا، عیب سے پاک ہونا۔
 (۲) باعصمت ہونا (۳) سیر - تفریح (۴) خوشی - فرحت - جمع، تندرنا۔
تندرنا - (تن، بزل، (ع، ا، ۱۰ - مٹ) (۱) نازل کرنا، اُتارنا (۳) وحی - الہام - (۵) قرآن مجید - جمع، تندرنا۔

تندرہ - (تن، زہرہ) (ع، ا، ۱۰ - مٹ) (۱) بڑی باتوں سے دور رکھنا، عیب سے پاک کرنا، صاف کرنا (۲) پاک، صفائی۔

تندرہ - (تن، سب) (ع، ا، ۱۰ - مٹ) (۱) منسوخ کرنا، باطل کرنا (۲) منسوخی۔
تندرہ - (تن، نص، سب) (ع، ا، ۱۰ - مٹ) (۱) مذہب عیسوی اختیار کرنا۔

تندریب - (ع، ا، ۱۰ - مٹ) (۱) جانا، نصب کرنا، لگانا - مقرر کرنا۔
تندریب - (انگ) (Installation) جمع، تندیبات۔

تندیب - (تن، صیغ، (ع، ا، ۱۰ - مٹ) (۱) دو برابر حصوں میں تقسیم کرنا۔
 دو برابر حصے کرنا۔

تنظیم - (تن، ظیم) (ع، ا، ۱۰ - مٹ) (۱) شعر کہنا، نظم لکھنا (۲) موتی پروانا۔
 (۳) مدتی کرنا، انتظام کرنا (۴) انتظام - بندوبست (۵) ترتیب (۶) تنظیم

تنظیم - (تن، ظیم) (ع، ا، ۱۰ - مٹ) (۱) نظم و نسق اور مورخہ یا حکومت کا
تنظیم - (تن، ظیم) (ع، ا، ۱۰ - مٹ) (۱) ناز و نعمت سے زندگی بسر کرنا (۲)

تنظیم - (تن، ظیم) (ع، ا، ۱۰ - مٹ) (۱) ناز و نعمت سے زندگی بسر کرنا (۲) عیش - آرام۔

تنظیم - (تن، ظیم) (ع، ا، ۱۰ - مٹ) (۱) ناز و نعمت میں باننا، عیش و آرام سے رکھنا۔
تنظیم - (تن، ظیم) (ع، ا، ۱۰ - مٹ) (۱) ناز و نعمت میں باننا، عیش و آرام سے رکھنا۔

تنظیم - (تن، ظیم) (ع، ا، ۱۰ - مٹ) (۱) ناز و نعمت میں باننا، عیش و آرام سے رکھنا۔
تنظیم - (تن، ظیم) (ع، ا، ۱۰ - مٹ) (۱) ناز و نعمت میں باننا، عیش و آرام سے رکھنا۔

تنظیم - (تن، ظیم) (ع، ا، ۱۰ - مٹ) (۱) ناز و نعمت میں باننا، عیش و آرام سے رکھنا۔
تنظیم - (تن، ظیم) (ع، ا، ۱۰ - مٹ) (۱) ناز و نعمت میں باننا، عیش و آرام سے رکھنا۔

تنظیم - (تن، ظیم) (ع، ا، ۱۰ - مٹ) (۱) ناز و نعمت میں باننا، عیش و آرام سے رکھنا۔
تنظیم - (تن، ظیم) (ع، ا، ۱۰ - مٹ) (۱) ناز و نعمت میں باننا، عیش و آرام سے رکھنا۔

تنظیم - (تن، ظیم) (ع، ا، ۱۰ - مٹ) (۱) ناز و نعمت میں باننا، عیش و آرام سے رکھنا۔
تنظیم - (تن، ظیم) (ع، ا، ۱۰ - مٹ) (۱) ناز و نعمت میں باننا، عیش و آرام سے رکھنا۔

تنظیم - (تن، ظیم) (ع، ا، ۱۰ - مٹ) (۱) ناز و نعمت میں باننا، عیش و آرام سے رکھنا۔
تنظیم - (تن، ظیم) (ع، ا، ۱۰ - مٹ) (۱) ناز و نعمت میں باننا، عیش و آرام سے رکھنا۔

تنظیم - (تن، ظیم) (ع، ا، ۱۰ - مٹ) (۱) ناز و نعمت میں باننا، عیش و آرام سے رکھنا۔
تنظیم - (تن، ظیم) (ع، ا، ۱۰ - مٹ) (۱) ناز و نعمت میں باننا، عیش و آرام سے رکھنا۔

تنظیم - (تن، ظیم) (ع، ا، ۱۰ - مٹ) (۱) ناز و نعمت میں باننا، عیش و آرام سے رکھنا۔
تنظیم - (تن، ظیم) (ع، ا، ۱۰ - مٹ) (۱) ناز و نعمت میں باننا، عیش و آرام سے رکھنا۔

تنظیم - (تن، ظیم) (ع، ا، ۱۰ - مٹ) (۱) ناز و نعمت میں باننا، عیش و آرام سے رکھنا۔
تنظیم - (تن، ظیم) (ع، ا، ۱۰ - مٹ) (۱) ناز و نعمت میں باننا، عیش و آرام سے رکھنا۔

تنظیم - (تن، ظیم) (ع، ا، ۱۰ - مٹ) (۱) ناز و نعمت میں باننا، عیش و آرام سے رکھنا۔
تنظیم - (تن، ظیم) (ع، ا، ۱۰ - مٹ) (۱) ناز و نعمت میں باننا، عیش و آرام سے رکھنا۔

تنظیم - (تن، ظیم) (ع، ا، ۱۰ - مٹ) (۱) ناز و نعمت میں باننا، عیش و آرام سے رکھنا۔
تنظیم - (تن، ظیم) (ع، ا، ۱۰ - مٹ) (۱) ناز و نعمت میں باننا، عیش و آرام سے رکھنا۔

تنگ - (ت، نگ) (ع، صغ) (۱) تنگوار - ذرا سا چھوٹا۔
تنگ - (ت، نگ) (ع، صغ) (۱) تنگوار - ذرا سا چھوٹا۔ (۲) کمزور (۳) اوجھا - بے حقیقت۔

تنگ ظرف - (ت، ف) (ع، صغ) (۱) کم ظرف - کمینہ - کم حوصلہ - اوجھا۔
 (۲) پیٹ کا ہلکا جیسے بات نہ کیے۔

تنگ ظرفی - (ت، ف) (ع، ا، ۱۰ - مٹ) (۱) کم حوصلگی چھوڑا پن۔

تنگ مایہ - (ت، ف) (ع، صغ) (۱) بے حیثیت - تھوڑی بوجھی کالا۔

تنگ مزاج - (ت، ف) (ع، صغ) (۱) نازک مزاج - پڑ پڑا - زڈورج - تند خو - تیز مزاج۔

تنگ مزاجی - (ت، ف) (ع، ا، ۱۰ - مٹ) (۱) نازک مزاجی - تند خوئی - زور بخشی۔

تنگ - (ت، ف) (ع، ا، ۱۰ - مٹ) (۱) نازک مزاجی - تند خوئی - زور بخشی۔
 (۲) کمزور (۳) اوجھا - بے حقیقت۔

تنگ - (ت، ف) (ع، ا، ۱۰ - مٹ) (۱) نازک مزاجی - تند خوئی - زور بخشی۔
 (۲) کمزور (۳) اوجھا - بے حقیقت۔

تنگ - (ت، ف) (ع، ا، ۱۰ - مٹ) (۱) نازک مزاجی - تند خوئی - زور بخشی۔
 (۲) کمزور (۳) اوجھا - بے حقیقت۔

تنگ - (ت، ف) (ع، ا، ۱۰ - مٹ) (۱) نازک مزاجی - تند خوئی - زور بخشی۔
 (۲) کمزور (۳) اوجھا - بے حقیقت۔

تنگ - (ت، ف) (ع، ا، ۱۰ - مٹ) (۱) نازک مزاجی - تند خوئی - زور بخشی۔
 (۲) کمزور (۳) اوجھا - بے حقیقت۔

تنگ - (ت، ف) (ع، ا، ۱۰ - مٹ) (۱) نازک مزاجی - تند خوئی - زور بخشی۔
 (۲) کمزور (۳) اوجھا - بے حقیقت۔

تنگ - (ت، ف) (ع، ا، ۱۰ - مٹ) (۱) نازک مزاجی - تند خوئی - زور بخشی۔
 (۲) کمزور (۳) اوجھا - بے حقیقت۔

تنگ - (ت، ف) (ع، ا، ۱۰ - مٹ) (۱) نازک مزاجی - تند خوئی - زور بخشی۔
 (۲) کمزور (۳) اوجھا - بے حقیقت۔

تنگ - (ت، ف) (ع، ا، ۱۰ - مٹ) (۱) نازک مزاجی - تند خوئی - زور بخشی۔
 (۲) کمزور (۳) اوجھا - بے حقیقت۔

تنگ - (ت، ف) (ع، ا، ۱۰ - مٹ) (۱) نازک مزاجی - تند خوئی - زور بخشی۔
 (۲) کمزور (۳) اوجھا - بے حقیقت۔

تنگ - (ت، ف) (ع، ا، ۱۰ - مٹ) (۱) نازک مزاجی - تند خوئی - زور بخشی۔
 (۲) کمزور (۳) اوجھا - بے حقیقت۔

تنگ - (ت، ف) (ع، ا، ۱۰ - مٹ) (۱) نازک مزاجی - تند خوئی - زور بخشی۔
 (۲) کمزور (۳) اوجھا - بے حقیقت۔

تنگ - (ت، ف) (ع، ا، ۱۰ - مٹ) (۱) نازک مزاجی - تند خوئی - زور بخشی۔
 (۲) کمزور (۳) اوجھا - بے حقیقت۔

تنگ - (ت، ف) (ع، ا، ۱۰ - مٹ) (۱) نازک مزاجی - تند خوئی - زور بخشی۔
 (۲) کمزور (۳) اوجھا - بے حقیقت۔

تنگ - (ت، ف) (ع، ا، ۱۰ - مٹ) (۱) نازک مزاجی - تند خوئی - زور بخشی۔
 (۲) کمزور (۳) اوجھا - بے حقیقت۔

تنگ - (ت، ف) (ع، ا، ۱۰ - مٹ) (۱) نازک مزاجی - تند خوئی - زور بخشی۔
 (۲) کمزور (۳) اوجھا - بے حقیقت۔

تنگے کا سہارا - (۱) محاورہ، ٹھوڑی سی مدد۔ ذرا سی امداد۔
تنگے کا سہارا نہیں - (۱) محاورہ، آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں۔
تنگے کا پیٹا گر دکھانا - (۱) محاورہ، بات کا بنگلہ بنانا۔ مبالغہ کرنا۔
تنگنا - (رت۔ ٹنگ، نا،) [م۔ ص] (۱) خفا ہونا۔ غصے ہونا (۲) بے قرار ہونا۔
تنگنی - (رت۔ ٹنگ، نا،) [م۔ ص] (۱) ایک قسم کی میٹھی پتلی روٹی۔
تنگیر - (رت۔ ٹنگ، نا،) [م۔ ص] (۱) اہم نکرہ بنانا۔ بڑی حالت کرنا (۲) اچان بنانا۔
تنگ - (رت۔ صفت) (۱) سکرٹا ہوا۔ بھیجا ہوا (۲) چست۔ بیضا ہوا (۳) کم ٹھوڑا (۴) محتاج (۵) عاجز۔ معلوم (۶) مشکل (۷) ٹھگین۔ روئیدہ (۸) زین کسے کا جوڑا تسمہ۔ (۹) فقیر۔ بوری (۱۰) گھڑ۔ گھڑ مال (۱۱) درہ (۱۲) مانی کا تصویر خانہ۔
تنگ آنا - (۱) محاورہ، عاجز آنا۔ مجبور ہونا (۲) بیزار ہونا۔ گھبرا جانا۔
تنگ بخت - (۳) تنگ جانا۔
تنگ بگڑنا - (۱) محاورہ، (۲) زحہ کرنا۔ عاجز کر دینا۔ (۳) گھوڑے کی لگام کو کھینچنا۔
تنگ بوٹ - (رت۔ صفت) چست کپڑے پہننے والا۔
تنگ پوشی - (رت۔ صفت) چست کپڑے پہننا۔
تنگ ترش ہونا - (۱) محاورہ، ناراض ہونا۔ روئیدہ ہونا۔
تنگ ٹوٹنا - (۱) محاورہ، گھوڑے کے تنگ کا دو ٹکڑے ہو جانا۔
تنگیانی - (رت۔ تنگی۔ سختی)۔
تنگ چشم - (رت۔ صفت) (۱) کینہ (۲) لالچی۔ حریص (۳) پھیل کجوس (۴) لہڑی کم ظرف۔ کم حوصلہ۔ اوجھا۔
تنگ چپٹی - (رت۔ صفت) (۱) کینگی (۲) اوجھا پن (۳) کم حوصلگی۔
تنگ حال - (رت۔ صفت) (۱) غریب مفلس۔ محتاج۔ نادار۔ تباہ حال۔
تنگ حال ہونا - (۱) محاورہ، غریب ہونا۔ نادار ہونا۔
تنگ حالی - (رت۔ صفت) غریب۔ مفلس۔ ناداری۔
تنگ حوصلگی - (رت۔ صفت) (۱) کم ظرفی۔ اوجھا پن۔ کینگی (۲) دست بہتی۔ کم ہمتی۔
تنگ حوصلہ - (رت۔ صفت) دست بہت کم ظرف۔ اوجھا۔
تنگ دست - (رت۔ صفت) مفلس۔ غریب۔ محتاج۔ نادار۔
تنگ دستی - (رت۔ صفت) مفلس۔ غریب۔ ناداری۔
تنگ دل - (رت۔ صفت) (۱) کم ظرف۔ کینہ۔ اوجھا پن (۲) کجوس۔ پھیل۔ کم حوصلہ۔
تنگ دلی - (رت۔ صفت) (۱) کم ظرفی (۲) کینگی (۳) کم حوصلگی۔
تنگ دوزی - (رت۔ صفت) باریک سلاخی۔
تنگ دہن - (رت۔ صفت) (۱) چھوٹے منہ کا۔ غنیمہ دہن مجاز المعشوق۔
تنگ ڈھیلا ہونا - (۱) محاورہ، گھوڑے کی پیش پوری طرح کسی نہ ہونا۔
تنگ روزی - (رت۔ صفت) مفلس۔ غریب۔
تنگ رہنا - (۱) محاورہ، (۲) اپنی دست ہونا۔ کم آمدنی زیادہ خرچ ہونا۔

(۳) بریشان رہنا۔
تنگ زلیست (عیش) - (رت۔ صفت) تنگ دست۔ غریب۔
تنگ طلبی - (رت۔ صفت) زور دے کر مانگنا۔ سختی سے تقاضا کرنا۔
تنگ ظرف - (رت۔ صفت) کم ظرف۔ کم حوصلہ۔ اوجھا۔
تنگ فرصت - (رت۔ صفت) کم فرصت۔
تنگ کرنا - (مصن۔ مرکب) (۱) تانا۔ تان کرنا (۲) مجبور کرنا۔ عاجز کرنا (۳) چست کرنا۔
تنگ کسنا - (مصن۔ مرکب) زین کے تے کو بیچ کر اٹھاننا۔ زین اپنی جگہ سے ہلے۔
تنگ گیری - (رت۔ صفت) ظلم۔ جور۔ ستم۔ زیادتی۔
تنگ معاش - (رت۔ صفت) تنگ دست۔ کم آمدنی والا۔
تنگنائے - (رت۔ صفت) (۱) تنگ راستہ۔ تنگ کوچہ (۲) قبر۔
تنگ و تارک - چھوٹی جگہ جہاں اندھیرا ہو۔
تنگ و زرتی - (رت۔ صفت) کفایت شعاری۔
تنگ وقت - (رت۔ صفت) (۱) مشکل کا وقت (۲) ضرورت کا وقت (۳) مصیبت کا وقت (۴) بہت ٹھوڑا وقت۔
تنگ وقت پر - (رت۔ صفت) (۱) مذہم ٹھوڑا اس وقت رہ جانے پر۔
کانی وقت نہ ہونے پر۔
تنگ ہاتھ ہونا - (۱) محاورہ، مفلس ہونا۔ پیسہ پاس نہ ہونا۔
تنگ یاب - (رت۔ صفت) کیا ب۔ نادار۔
تنگ - (رت۔ صفت) (۱) چھوٹے منہ کا۔ برتن (۲) فوج کا ایک دستہ۔
تنگا - (رت۔ صفت) (۱) مذہم ٹھوڑا۔
تنگا تنگ - (رت۔ صفت) (۱) گاتنگ (۲) اوجھا پن (۳) کجوس (۴) کینگی (۵) کم حوصلگی۔
تنگ تلم - (رت۔ صفت) (۱) مذہم ٹھوڑا۔
تنگ تلی - (رت۔ صفت) (۱) کوئی بھی۔ کمی۔ قلت۔ چھوٹا پن (۲) مفلس۔ غریب۔ ناداری (۳) مشکل۔ دشواری۔ وقت (۴) کجوس۔ پھیل (۵) تنگ۔ کم ظرفی۔ بوری۔
تنگ تریستی - (رت۔ صفت) کفایت شعاری۔ تکلیف کے ساتھ۔
تنگ تریستی سے گزارا ہونا - (۱) محاورہ، بڑی کفایت شعاری سے گزارا ہونا۔
تنگ کرنا - (۱) محاورہ، (۲) تکلیف ہونا (۳) آمدنی کی کمی ہونا۔
تنگی کے ساتھ فراخی اور فراخی کیساتھ تنگی ملی ہوتی ہے (مثلاً) کوئی ہمیشہ امیر یا غریب نہیں رہتا۔ حالت بدلتی رہتی ہے۔ امیری اور غریب کا ساتھ ہے۔
تنگی کئی فراخی آئی - (مثلاً) بڑے دن گئے۔ پچھلے دن آئے۔
تنگی و فراخی بدست خود - (مثلاً) تنگی اور فراخی اپنے ہاتھ ہے۔ مذاقاً مجبور کی نسبت کہتے ہیں۔
تنگی ہونا - (۱) محاورہ، (۲) تکلیف ہونا (۳) آمدنی کی کمی ہونا۔
تنگیانا یہ تنگ یا نا (۱) اوجھا پن (۲) تنگ گنا (۳) گھوڑا سرٹ دھڑانا۔
تنگور۔ تنور۔ (رت۔ صفت) (۱) کوئی۔ (۲) مذہم ٹھوڑا۔
تنگ کر کے اس میں روٹیاں پکاتے ہیں (۱) ایک گول لمبو تراکیبی کا برتن۔

جسے لکھنے میں لگا کر یا زمین کے اوپر رکھ کر درمیاں پکاتے ہیں (۳) انگریزی طریقے کی ڈبل روٹی، کبک۔ مٹھانی وغیرہ بنانے کا بھٹ۔ تنور جھونکنا - (۱) محاورہ، تنور گرم کرنا۔ تنور میں ایندھن ڈالنا۔ تنور خانہ - (ن. ۱) مذ. باورچی خانہ۔ تنور سے پکھنے کے لئے جھاڑیں گرمے - (۱) بشل تھوڑی مصیبت سے بچنے کے لیے بڑی مصیبت میں پڑے۔ تنور کی سوجھنا - (۱) محاورہ، تنور پر پارا کر روٹی کھانا۔ تنوع - (ث. ن. ۱) مؤ. موع، (د. ج. ۱) مذ. تنوع نام کا ہونا۔ مختلف رنگ کا ہونا۔ گونا گونی - جمع: تنوعات۔ تنومند - (ث. ن. ۱) مؤ. تمند، (ث. صف) معنوی بدن - قوی جسم - ہتھا لٹا۔ تنومندی - (ث. ن. ۱) مؤ. مندی، (ث. م. ۱) مؤ. (۱) قوت - طاقت (۲) فریبی ہو پایا۔ تنویر - (ث. ن. ۱) مؤ. (ث. ج. ۱) مؤ. (ث. م. ۱) مؤ. نور - چمک۔ تنوین - (ث. ن. ۱) مؤ. (ث. ج. ۱) مؤ. (ث. م. ۱) مؤ. کسی حرف پر دو زیر یا زبر یا پیش لگانے سے نون کی آواز پیدا کرنا۔ تنہ - (ث. ن. ۱) مؤ. (ث. ج. ۱) مؤ. (ث. م. ۱) مؤ. (ث. م. ۱) مؤ. درخت کا حصہ۔ درخت کا دھڑ - تنہا - (ث. ن. ۱) مؤ. (ث. ج. ۱) مؤ. (ث. م. ۱) مؤ. (ث. م. ۱) مؤ. بے نظیر (۳) صرف فقط (۲) طاق (۵) انگ - جدا جلا جلا۔ تنہا خوری - (ث. ن. ۱) مؤ. (ث. م. ۱) مؤ. اکیلے کھانا۔ تنہائی - (ث. ن. ۱) مؤ. (ث. م. ۱) مؤ. (ث. م. ۱) مؤ. (ث. م. ۱) مؤ. مفارقت - اکیلا رہنا۔ تپنی - (ث. ن. ۱) مؤ. (ث. م. ۱) مؤ. (ث. م. ۱) مؤ. (ث. م. ۱) مؤ. کسی چیز کے باندھنے یا کتنے کی ڈور بند - (۲) حصہ - ساچھا۔ تپنی رہنا - (۱) محاورہ، جھگڑا رہنا۔ داتا کلک رہنا۔ تپنی میں گانٹھ دینا - (۱) محاورہ، (۱) مشوب کرنا۔ نسبت کرنا۔ بیگنی کرنا۔ سگائی کرنا (۲) یاد رکھنا۔ یادداشت کے لیے بندیں گرہ لگانا۔ تپنی - (ث. ن. ۱) مؤ. (ث. م. ۱) مؤ. (ث. م. ۱) مؤ. (ث. م. ۱) مؤ. تپنی - (ث. ن. ۱) مؤ. (ث. م. ۱) مؤ. (ث. م. ۱) مؤ. (ث. م. ۱) مؤ. ستر پستی کے لیے باندھتے ہیں۔

ت - و

تو - (ہ) واؤ بھول کے ساتھ (۱) تب - پس (۲) الحاصل - حاصل کلام (۳) اس وقت - پھر۔ اس حالت میں۔ تو بات سے - (متعلق فعل) تب مزہ ہے۔ تب لطف ہے۔ تو بھی - باوجود یکہ - پھر بھی۔ تاہم۔ تو پھر - اس وقت - اس حالت میں۔ تو ہسی - (۱) بالضرور یعنی (۲) بے شک (۳) سمجھوں گا۔ دیکھ تو۔ تو کیا - (متعلق فعل) کچھ نہیں۔ کچھ نقصان نہیں۔ کچھ مضائقہ نہیں۔ تو کیا ہوتا - (متعلق فعل) (۱) کچھ نقصان نہ ہونا (۲) کسی صورت میں ہونا۔

توازد - (ت) - (د) - (ع) - (ا) - (ذ) (۱) باجم ایک جگہ آرتنا (۲) دو شخصوں کو ایک ہی مضمون سنبھانا (۳) ایک ہی بیت یا مصرعے دو شاعروں کے ذہن میں آنا۔

تواری - (ت) - (و) - (ری) - (ذ) - (ا) - (ن) برہمنوں کا ایک فرقہ جس کو تین وید پڑھنے کی اجازت ہے۔

تواریخ - (ت) - (و) - (ریخ) - (ع) - (ا) - (مٹ) تاریخ کی جین (۱) مہینے کا دن (۲) سنوں کا علم (۳) جتنے تدریس کے واقعات (۴) واقعات کا علم۔

توازن - (ت) - (و) - (زن) - (ع) - (ا) - (ن) - (م) وزن ہونا (۲) موازنہ کرنا (۳) متناسب۔

توازن حسابات - معاملات ادارے کے جمع اور خرچ کو برابر کرنا۔

توازن دعوئہ و استدہار - لین دین کا مقابلہ۔

توازن درآمد و برآمد - درآمد اور برآمد کا اعتدال۔

تواضع - (ت) - (و) - (ضع) - (ع) - (ا) - (مٹ) (۱) خاطر مدارات - آڈیکلیت (۲) ہجران داری - ہجران نوازی۔

تواضع سمرقندی - (ع) - (ا) - (مٹ) بھونٹی خاطر تواضع - ظاہر داری کی آڈیکلیت۔

تواضع کرنا - (م) - (مٹ) خوش اخلاقی سے پیش آنا۔

توافق - (ت) - (و) - (تق) - (ع) - (ا) - (ن) موافقت - مطابقت - یک جہانی۔

توافق میل - (۲) علم حساب میں ایسے دو اعداد کا تعلق جن کو تیسرا عدد پورا کرتا ہے۔

توالد - (ت) - (و) - (ا) - (ل) - (د) - (ع) - (ا) - (ن) اولاد پیدا کرنا۔

توالد و تناسل - (ع) - (ا) - (ن) اولاد پیدا ہونا اور نسل بنانا۔

تواری - (ت) - (و) - (اری) - (ع) - (ا) - (مٹ) متوازن - پے درپے - لگاتار مسلسل۔

توأم - (تو) - (ا) - (م) - (ذ) - (جڑواں) - ایک ساتھ کے پیدا شدہ بچے۔

توأمال - (تو) - (ا) - (مال) - (ع) - (ص) وہ دونوں بچے جو اسی مینہ سے پیدا ہوں۔

تووال - (ت) - (و) - (ال) - (ن) (۱) مذاہن طاقت - زور - قوت - بل - قدرت - ہمت۔

توانا - (ت) - (و) - (انا) - (ن) (ص) (۱) زور اور طاقت ور (۲) توانمند - ہٹا کتا۔

توانائے مطلق - قادر مطلق - خدائے تعالیٰ۔

تواریخ - (ت) - (و) - (تاریخ) - (ع) - (ا) - (مٹ) طاقت - زور - قوت۔

تواریک - (ت) - (و) - (تاریخ) - (ع) - (ا) - (مٹ) دولت مند - امیر - مالدار۔

تواری - (ت) - (و) - (تاریخ) - (ع) - (ا) - (مٹ) دولت مند - امارت - مالدار۔

توبرہ - (ت) - (و) - (ب) - (ر) - (ا) - (ن) (۱) وہ تھیل جس میں گھوڑے کو دانہ لگاتے ہیں (۲) (مقدونیا) منہ۔

توبرہ پھرتے لگنے رکھنا - (۱) - (ع) - (ا) - (مٹ) ہر وقت منہ پھیلانے رکھنا ہر وقت میں جھپٹنا۔

توبرہ - (تو) - (ب) - (ر) - (ا) - (مٹ) (۱) استغفار (۲) انوس پچھنا (۳) خدا سے -

توبرہ بڑی سپر - (۱) کسی بڑے کام سے باز رہنے کا ہمد (۲) زہار۔

توبرہ النصوح - (ع) - (ص) - (ن) سپر توہ -

توبرہ بڑی سپر - (۱) کسی بڑے کام سے باز رہنے کا ہمد (۲) زہار۔

توبرہ بھارتی - (ت) - (و) - (بھارت) - (ع) - (ا) - (مٹ) دولت مند - امارت - مالدار۔

توبرہ بھارتی - (ت) - (و) - (بھارت) - (ع) - (ا) - (مٹ) دولت مند - امارت - مالدار۔

توہین تیرا بھائی تیرا - (۱) - (ع) - (ا) - (مٹ) (۱) توہین کرتا تو کوئی اور اس کام کو کہتا ہے۔

(۲) اگر تو نے یہ کام نہیں کیا تو تیرے کسی بھائی نے کیا ہوگا۔

توہین جانیانا - جلا جا - نہیں تو تیرے واسطے اچھا نہ ہوگا۔

توہین ماننا - مان لے - اور نہ تیرے واسطے بڑا ہوگا۔

توہین تیرے - (ت) - (و) - (تیرے) - (ع) - (ا) - (مٹ) (۱) تجھے تمہارا اعتبار نہیں۔

توہن کی رام جینی - (ت) - (و) - (توہن) - (ع) - (ا) - (مٹ) بدکار عورت بدکار خاندان سے کہتی ہے چونکہ میں نے کسی رام جانیانا تو بدکاری کرتا ہے۔ اس لئے میں بھی کرتی ہوں۔

توہو اور دیتا جو - (ت) - (و) - (توہو) - (ع) - (ا) - (مٹ) (۱) تو ہمیشہ زندہ رہے۔

توہی تو ہے - تیرے سوا اور کوئی نہیں۔ ہر جگہ تو ہی ہے۔ خدا کو خطاب کرتے ہیں۔

توہے اور میں ہوں - (ت) - (و) - (توہے) - (ع) - (ا) - (مٹ) اب ایسا بدلہ لوں گا کہ تو بھی یاد کرے۔

توا - (ت) - (و) - (ا) - (ن) - (۱) - (ع) - (ا) - (ن) - (۱) کوسے کا گول ظرف جس پر روٹی پکاتے ہیں۔

(۲) ٹھیکے کا گول ٹکڑا۔ جسے عمل میں تباہی کے ڈپر رکھ کر جمل بھرتے ہیں۔

(۳) بڑا ہونے یا شیشے کا گول ٹکڑا جس میں سوراخ ہوتے ہیں اور گولوں کی ت میں رکھا جاتا ہے (۴) وہ ہونے کا گول ٹکڑا ہے پانی گرم کرنے کے لیے عام یا مستحقہ میں لگاتے ہیں۔ اس کے نیچے آگ بجلائی جاتی ہے اور یہ گرم ہو کر پانی کو گرم کرتا ہے (۵) دریا کی ت (۶) ضعف (۷) لے حد سیاہ بہت کالا۔

تواچرٹھا اور جی بڑھادش - روٹی پکے دیکھ کر ٹھوکے کو تسلی ہو جاتی ہے۔

تواچرٹھا بھٹی مسرائی - (ت) - (و) - (چرٹھا) - (ع) - (ا) - (مٹ) (۱) ہے تو عزیز مگر دکھاوے کو کھڑے تاج اکھن نہ پانی امیرانہ کام کرتی ہے۔

تواچرٹھا - (ت) - (و) - (چرٹھا) - (ع) - (ا) - (مٹ) (۱) روٹی پکانے کے لیے ٹوٹے کا چونٹے پر رکھا جانا۔

تواچرٹھا کی تیاری - ہونا۔

تواچرٹھا بانٹھنا - رکھ لینا۔ (۲) - (ت) - (و) - (چرٹھا) - (ع) - (ا) - (مٹ) (۱) امر کی حفاظت کر کے جنگ کیلئے تیار ہونا۔

(۲) اپنے تئیں مضبوط و مستحکم ہونا۔

توالال - ہونا۔ آگ کی تیزی سے توہے کا سرخ ہو جانا۔

توانہ تغاری - (ت) - (و) - (توانہ) - (ع) - (ا) - (مٹ) پاس کچھ نہ ہو تو اونڈانہ چلیاری کہے نار میں ہوں چلیاری اور ظاہر داری بہت ہوتے ہیں۔

تواہننا - (ت) - (و) - (تواہن) - (ع) - (ا) - (مٹ) (۱) جلتے توہے کے نیچے بہت سا کاہل چھ ہو کر ذرا ذرا سی روشنی کے ذرات مسلسل وار چکے لگتے ہیں۔ اسے غور میں توہے کا ہنسا کہتی ہیں اور اسے شادی اور رزق کی افزوئی کا شگون سمجھتی ہیں۔

(۲) (مذاقا) کلمے آدمی کو پاؤں کھا کر ہنسا۔

توہے پری بوند - ٹوہے کی بوند (۱) - (ع) - (ا) - (مٹ) ناپائیدار چیز - جلد فنا ہو جانے والی۔

توآب - (تو) - (و) - (آب) - (ع) - (ا) - (مٹ) (۱) توہی منظور کرنے والا - خدائے تعالیٰ۔

توآب - (ت) - (و) - (آب) - (ع) - (ا) - (مٹ) (۱) مذہب تابع کی جمع - پیرو - ملازم - ماتحت۔

توآب - (ت) - (و) - (آب) - (ع) - (ا) - (مٹ) (۱) مذہب کے درپے - برابر - لگاتار۔ (۲) تیز اور مسلسل تسلسل۔

توآب - (ت) - (و) - (آب) - (ع) - (ا) - (مٹ) (۱) مذہب (۲) ذرا پانا (۳) دولت -

توبہ بھولی جانا۔ (۱- محاورہ) احساس گم ہونا۔ پریشان ہونا۔
 توبہ پٹلا۔ (۱- مذ) شور فغاں۔ دوایلا۔ فریاد۔ پانے دانے۔
 توبہ توبہ۔ (حرف مذہب) عزت یا کجاہد یا مقام عبرت و تاسف پر ہوتے ہیں
 توبہ توبہ مجا دینا۔ (۱- محاورہ) ایسا علم یا گناہ کا کام کرنا کہ ساری
 دنیا توبہ توبہ کرے۔
 توبہ ٹوڑنا۔ (۱- محاورہ) ہمدستی کرنا۔ قول و قسم سے پھیرنا۔
 توبہ (ٹوٹ جانا) ٹوٹنا۔ (۱- محاورہ) جھوٹ جانا۔ قسم ٹوٹ جانا۔
 توبہ دھاڑ کرنا) مجانا۔ (۱- محاورہ) (۱) شور وغل مچانا (۲) پناہ مانگنا
 (۳) زور شور سے شکوے شکایت کرنا۔
 توبہ مسکن۔ (ع۔ ف۔ ۱- مذ) (۱) توبہ توڑنے والا (۲) توبہ توڑوانے والا۔
 توبہ قبول فرمانا۔ (مص۔ مرکب) گنہ معاف کر دینا۔
 توبہ کا در بند ہو جانا۔ (۱- محاورہ) استغفار کرنے کا وقت نہ رہنا یا
 گزر جانا۔ مسلمانوں کے عقیدے میں قیامت کے شروع ہونے
 کے بعد توبہ قبول نہ ہونے کی۔
 توبہ کا دروازہ کھلا سے۔ (مثل) توبہ وقت قبول ہو سکتی ہے۔
 توبہ کرانا۔ (۱- محاورہ) (۱) چیں بلوانا۔ عاجز کرنا (۲) بڑی بات پھڑوانا (۳)
 معافی منگوانا۔
 توبہ کو رہندے۔ (۱- مقولہ) جب کوئی عذر کی بات کہے یا منہ پالے تو کہتے ہیں
 توبہ کر کے کہنا۔ (۱- محاورہ) خدا سے معافی مانگ کر دعوے یا شیخی
 کی کوئی بات کہنا۔
 توبہ کرنا۔ (۱- محاورہ) (۱) گناہ سے باز آنا (۲) قسم کھانا (۳) فریاد کرنا (۴)
 کوئی بڑی بات چھوڑنے کا ہمد کرنا۔
 توبہ (کرو) پیچھے۔ (۱- مثل) کوئی عذر کا گلہ کہے یا کسی پر ہنسے یا خلاف
 مذہب کوئی بات کرے، تو کہتے ہیں۔
 توبہ ہی بھلی۔ (۱- مثل) عورتیں توبہ کی جگہ بولتی ہیں۔
 توبہ سے۔ (۱- مثل) اب نہیں کروں گا۔ باز آتا ہوں۔
 توبہ (توبہ) (ع۔ ف۔ ۱- مذ) (۱) غلامت چھوڑنے کی۔ سرزنش۔ طنز۔
 توبہ۔ (ت۔ ۱- مذ) (۱) گولہ چلانے کا آلہ (۲) بہت موٹا آدمی۔
 توبہ بھرنا۔ (مص۔ مرکب) توبہ میں گولہ بارود ڈالنا۔
 توبہ پر رکھنا۔ کسی شخص کو توبہ سے اُڑانے کے لیے توبہ کے
 سامنے کرنا یا توبہ کے منہ پر ہاندھ دینا۔
 توبہ (چلانا) چھوڑنا۔ (۱) گولہ مارنا۔ توبہ کی بارود کو آگ لگانا
 (۲) گولہ مارنا۔ یاد دانا (مذاق) بہت موٹا آدمی یا عورت۔
 توبہ پی۔ (ف۔ صفت) توبہ چلانے والا۔ گولہ باز۔
 توبہ خانہ۔ (ت۔ ف۔ مذ) وہ جگہ جہاں توبہیں رکھی جائیں اور ان
 کے چلانے والے اور عملہ رہے۔
 توبہ داغنا۔ (۱- محاورہ) توبہ چلانا۔
 توبہ دم (کرو دینا) کرنا۔ (۱- محاورہ) توبہ کے منہ پر ہاندھ کر اُڑانا۔
 توبہ سے اُڑا دینا۔ (۱- محاورہ) توبہ کے منہ پر ہاندھ کر اُڑا دینا۔
 توبہ کو توبہ دکھانا۔ (۱- محاورہ) توبہ کی بارود کو آگ لگانا۔

توبہ کے منہ اُڑا دینا۔ (۱- محاورہ) توبہ کے منہ پر ہاندھ کر توبہ
 چلا کر مار ڈالنا۔
 توبہ کے مہرے۔ مصیبت کے سامنے مصیبت میں۔
 توبہ لگانا۔ (۱- محاورہ) (۱) توبہ چلانا (۲) توبہ کو ایک جگہ نصب کرنا۔
 توبہ لگنا۔ (۱- محاورہ) توبہ کا نصب ہونا۔
 توبہ مارنا۔ (۱- محاورہ) توبہ چلانا۔
 توبوں کی کڑک۔ توبوں کے چیلنے کی آواز۔
 تو پینا۔ (توب۔ نا۔ ۱- ۱- ۱) (۱) گڑھا بند کرنا (۲) زمین میں گاڑنا۔ دفن کرنا۔
 (۳) چھپانا۔ ڈھانپنا۔
 توت۔ (۱- ۱- ۱- ۱) (۱) ایک درخت (۲) اس کا پھل ہشتوت۔
 توتنا۔ (توتنا) (۱- ۱- ۱- ۱) (۱) طوطا۔ مٹھو۔ ایک خوش رنگ مہشور پرندہ۔ کھانے
 سے کچھ باتیں سیکھ جاتا ہے (۲) طفل۔ بچہ جو بیاری بیاری باتیں کرے۔
 (۳) بھنگ کی نگدی (۴) توتے دار بندوق کا گھوڑا۔
 توتنا بالٹنا۔ (۱- محاورہ) (۱) کوئی ایسا کام کرنا جس کی وجہ سے کوئی اور کام
 نہ ہو سکے (۲) کوئی بیاری مول لے لینا (۳) آشک یا سوزاک کی بیماری
 لگا لینا۔
 توتنا چشم۔ (۱- صفت) بے مروت۔ بے وفا۔
 توتنا چشمی۔ (۱- صفت) بے مروتی۔ بے وفائی۔
 توتنا سا (بولنا) پڑھنا۔ (۱- محاورہ) بچوں کے ہونے یا بڑھنے کی تعریف
 میں کہتے ہیں۔
 توتے اُڑ جانا۔ (۱- محاورہ) گھبرا جانا جو اس باختم ہو جانا اور ان خطا ہو جانا
 توتے پڑھنا۔ (۱- محاورہ) (۱) ایسے شخص کو پڑھانا جو سخت گند ذہن
 ہو (۲) توتے کو بولنا سکھانا۔
 توتے کی سسی آنکھیں (بدلنا) پھیرنا۔ (۱- محاورہ) دفعہ بے مروت
 ہو جانا۔ بے وفائی کرنا۔ محبت سے منہ موڑنا۔
 توتے کی طرح (پڑھنا) یاد کرنا۔ (۱- محاورہ) بے سمجھے بوجھے پڑھنا۔
 بے سمجھے بوجھے یاد کرنا۔
 توتلا۔ (توت۔ لا۔ ۱- ۱- ۱) (۱) صفت) وہ آدمی جس کی زبان موٹی ہونے کے باعث
 الفاظ صاف نہ نکل سکیں۔
 توتلایں۔ (۱- ۱- ۱- ۱) (۱) مذ) زبان موٹی ہونے اور الفاظ صاف نہ نکلنے کا مرض۔
 توتلا کر بولنا۔
 توتو۔ (توتو) (دروں واڈ مجبول) (۱- ۱- ۱) (۱) کتے کو بلانے کی آواز (۲) بولنا
 باتیں کرنا (۳) مجازاً زبان (ق)
 توتی۔ (توت۔ ای۔ ۱- ۱- ۱) (۱) صفت) بچوں کو بانی پلانے کی ٹوٹی دار چھوٹی ٹیٹیا۔
 توتی۔ (توتی) (توتی) (۱- ۱- ۱- ۱) (۱) مذ) ایک چھوٹا سا خوش آواز پرندہ۔ طوطا۔
 توتی (طوطی) بولنا۔ (۱- محاورہ) (۱) کسی ہنر یا شوخی کی وجہ سے مشہور ہونا۔
 سترہ آفاق ہونا (۲) دور دورہ ہونا۔ اقبال یاد ہونا (۳) کسی افسر یا امیر
 کے پاس رسوخ ہونا۔
 توتی کی آواز نثار خانے میں کون سنتا ہے۔ (مثل) بڑے آدمیوں
 کی رائے کے سامنے چھوٹے آدمیوں کی رائے کو کوئی نہیں پوچھتا۔

پوتیا۔ روتیا (یا) (۵-۱-۱) مذ) بیلا تھوٹھا۔

پوتیا۔ (توتیا) (یا) (۱-۱-۱) مذ) سرسے کا پتھر
 پوتیا۔ (توتیا) (یا) (۱-۱-۱) مذ) توطیہ کا بڑا ہوا۔ الزام۔ بہمت۔ دوش۔ پھدا۔
 پوتیا بانڈھنا۔ پوتیا طوفان جوڑنا۔ (۱-۱-۱) محاورہ) الزام لگانا۔
 پوتیے جوڑنا۔ (۱-۱-۱) محاورہ) الزام لگانا۔

توزیق۔ (توزیق) (۱-۱-۱) مذ) (۱) مضبوطی۔ چنگی (۲) مضبوط کرنا (۳) تصدیق۔
 توتیق کرنا۔ (۱-۱-۱) محاورہ) (۱) پکا کرنا۔ مضبوط کرنا (۲) تصدیق کرنا۔
 پوجانا۔ (توجانا) (۱-۱-۱) محاورہ) (۱) عیسائیوں کا محل کرنا۔
 توجہ۔ (توجہ) (۱-۱-۱) مذ) (۱) کسی کی طرف منہ کرنا (۲) رجحان۔ رغبت

میلان۔ رجوع (۳) خیال۔ (۲) لحاظ (۴) مہربانی۔ عنایت۔
 توجہ باطن۔ (۱-۱-۱) مذ) (۱) دلی توجہ۔ کسی کی اصطلاح نفس کے لیے اس
 کے دل پر روحانی اثر ڈالنا۔

توجہ پھیرنا۔ (۱-۱-۱) محاورہ) (۱) متوجہ ہونا (۲) توجہ پٹا لینا۔
 توجہ رہنا۔ (۱-۱-۱) محاورہ) (۱) خیال رہنا (۲) مہربانی رہنا۔
 توجہ سے دیکھنا۔ (۱-۱-۱) محاورہ) عجز سے ملاحظہ کرنا۔
 توجہ کرنا۔ (۱-۱-۱) محاورہ) متوجہ ہونا۔ رجوع ہونا۔

توجہ کی نظر ہونا۔ (۱-۱-۱) محاورہ) مہربانی کی نگاہ ہونا۔ شفقت ہونا۔ لحاظ کرنا۔
 توجہ مبذول ہونا۔ (۱-۱-۱) محاورہ) کسی طرف توجہ کرنا۔ متوجہ ہونا۔
 توجہ نہ رہنا۔ (۱-۱-۱) محاورہ) (دھیان ہٹ جانا۔ بے خیالی ہو جانا۔
 توجہ بہہ۔ (توجہ بہہ) (۱-۱-۱) مذ) (۱) دوجہ بیان کرنا۔ باعث بتانا۔ دلیل لانا۔
 (۲) دلیل۔ دوجہ (۳) علیہ۔ کیفیت۔

توجہ بہہ نولیس۔ (۱-۱-۱) مذ) علیہ کہنے والا۔
 توش۔ (توش) (۱-۱-۱) مذ) (۱) دشت۔ (۲) نصرت۔ (۳) وحشت ہونا۔
 توجید۔ (توجید) (۱-۱-۱) مذ) (۱) ایک ماننا۔ ایک جاننا (۲) خدا کے ایک
 ہونے پر یقین کرنا (۳) وحدانیت۔ یکتائی۔
 تودہ۔ (تودہ) (۱-۱-۱) مذ) (۱) ڈھیر۔ انبار۔ پشتہ۔ ٹیلا (۲) حد کا مٹی کا نشان
 یا ڈھیر (۳) ہدف۔ نشانہ (۴)

تورہ بندی۔ (۱-۱-۱) مذ) (۱) حد بندی۔
 تودہ ٹھاک۔ (۱-۱-۱) مذ) (۱) مٹی کا ڈھیر۔

تودہ طوفان۔ (۱-۱-۱) مذ) (۱) بہت الزام۔ بہت جھوٹا الزام لگانے
 والا۔ فتنہ انگیز۔ شر بر۔ فساد۔

تودیلح۔ (تودیلح) (۱-۱-۱) مذ) (۱) دوا کرنا۔ رخصت کرنا (۲) سپرد کرنا
 سونپنا۔

توڑ۔ (توڑ) (۱-۱-۱) مذ) (۱) لٹا۔ لٹا کے پھول کی زنجیر۔

توڑ۔ (توڑ) (۱-۱-۱) مذ) (۱) مٹی کی پوشش جو پالی یا پینس پر ڈالتے ہیں۔
 توڑ۔ (توڑ) (۱-۱-۱) مذ) (۱) ایک غلہ جس کی دال پکاتے ہیں۔ ارہر (۲) روٹی۔

توڑ تیل تاپنا۔ جگر ٹالس جو اپنا۔ (۱) تیل اور ایندھن
 ہوتو جگر بڑے آرام سے گڑ جاتا ہے۔

تورات۔ (تورات) (۱-۱-۱) مذ) (۱) دہ آسمانی کتاب جو حضرت موسیٰ پر
 نازل ہوئی تھی۔

تورع۔ (تورع) (۱-۱-۱) مذ) (۱) زہد۔ پرہیزگاری۔ اتقا۔
 تورہ۔ (تورہ) (۱-۱-۱) مذ) (۱) قانون۔ طریق۔ رسم۔ درواج۔ دستور العمل (۲)
 (مجازاً) وہ قانون جو پیگیز خال نے وضع کیا تھا (۳) حکم شاہی۔
 فرمان سلطان۔

تورہ۔ (تورہ) (۱-۱-۱) مذ) (۱) مختلف کھانوں کے خواں، جو امیر لوگ تقریبات
 کے موقع پر بھیجتے ہیں (۲) خواں میں لگے ہوئے قسم قسم کے کھانے (۳)
 امیر نواب۔ وزیر (۴) غزدر۔ گھنڈ (۵) عزت۔ رتبہ۔ حیثیت۔

تورہ بندی۔ (۱-۱-۱) محاورہ) مختلف کھانوں کے خواں بھیجنے کی تقریب۔
 تورہ پوش۔ (۱-۱-۱) مذ) (۱) بانس کی تیلیوں کا سرو پوش، جو تورے کے
 خولوں پر رکھتے ہیں۔

تورہ پٹی۔ (۱-۱-۱) مذ) (۱) مفرد عورت۔ شیخی باز عورت۔
 تورہ توڑنا۔ (۱-۱-۱) محاورہ) غزدر توڑنا۔ گھنڈ نکالنا۔

تورہ تھانا۔ (۱-۱-۱) محاورہ) (۱) فخر کرنا۔ غزدر کرنا (۲) اپنی بڑائی دکھانا۔ شیخی ماننا۔
 تورہ ڈھانا۔ (۱-۱-۱) محاورہ) غزدر مٹانا۔

تورہ لگ جانا۔ لگنا۔ (۱-۱-۱) محاورہ) غزدر کرنا۔ اترنا۔ فخر کرنا۔
 تورے والی۔ (۱-۱-۱) محاورہ) مفرد عورت۔

توری۔ (توری) (۱-۱-۱) مذ) (۱) ایک قسم کی ترکیب۔
 توریہ۔ (توریہ) (۱-۱-۱) مذ) (۱) سرسوں کا بیج یا بودا۔

توزیت۔ (توزیت) (۱-۱-۱) مذ) (۱) دھیرائی۔ (۲) دیکھنے توڑتے۔

توڑ۔ (توڑ) (۱-۱-۱) مذ) (۱) ٹٹ۔ ٹٹ (۲) بیٹھوٹ (۳) علاج۔ چارہ۔ دفعہ
 (۴) پانی کے بہاؤ کا زور (۵) شکاف۔ درز (۶) گولی یا گولے کی توڑنے کی
 قوت (۷) فاصلہ جو تیر یا گولے کے (۸) دہی کا پانی (۹) وہ رسی جو
 پالی یا پینس وغیرہ کے گڑ پر دے کر اڑانے سے روکنے کے لئے بانڈتے
 ہیں۔ تور (۱۰) چیز کی قیمت کا فیصلہ۔ چکوٹا۔

توڑ کر۔ (۱-۱-۱) محاورہ) ضد پر۔
 توڑ (پھوڑ) تار۔ (۱-۱-۱) مذ) (۱) ٹٹ۔ بیٹھوٹ (۲) خرابی۔ پامناں (۳)
 سازش۔ اخواد۔

توڑ جوڑ۔ (۱-۱-۱) مذ) (۱) تدریس۔ سازش۔ داؤ بیج۔ داؤ گھات (۲) کانٹ بھانٹ
 قطع و برید (۳) چال بازی۔ مکاری۔ شرارت (۴) دانائی۔ عقل مندی (۵)
 دوا دہوں میں ناقصاتی ڈلوادینے کا طریقہ (۶) تراش تراش۔

توڑ جوڑ جیلنا۔ (۱-۱-۱) محاورہ) چال چلنا۔
 توڑ جوڑ کا آستہ (پورا) ہے۔ (۱-۱-۱) محاورہ) بڑا چلتا پڑتا ہے۔ بڑا معاش
 ہے۔ لڑائی جھگڑا کر دینے میں آستہ دہے۔

توڑ (دینا) ڈالنا۔ (۱-۱-۱) محاورہ) توڑنا۔
 توڑ کرنا۔ (۱-۱-۱) محاورہ) (۱) داؤ کا رد کرنا (۲) حساب صاف کرنا (۳) داؤں
 کا رد کرنا (۴) جواب رد کرنا۔

توڑ کی صراحی۔ (۱-۱-۱) محاورہ) (۱) صراحی جس کے حصے الگ الگ ہو جائیں۔
 توڑ کے نکل جانا۔ (۱-۱-۱) محاورہ) کسی مضبوط چیز کے آپٹار ہونا۔

توڑ لانا۔ (۱-۱-۱) محاورہ) الگ کرنا۔
 توڑ لینا۔ (۱-۱-۱) محاورہ) (۱) الگ کر لینا۔ اپنی طرف کر لینا (۲) توڑنا۔

توڑنا مروڑنا - (۱- محاورہ) (۱) ہاتھ پائی کرنا - چھینا چھین کرنا (۲) کسی شے کو بیل دینا (۳) لوہے کے تار کو بیل دار کرنا۔
توڑوانی - (توڑ-وا-ای-دہ-۱-مٹ) توڑنے کی اجرت۔
توڑی - (توڑی) (واڈھول) (دہ-۱-مٹ) (۱) رانی کا پورا (۲) رانی کا بیج۔ (۳) سرسول (۴) ایک رنگنی کا نام۔
توڑی - (توڑی) (واڈھول) (دہ-۱-مٹ) گہوں یا جو کا ٹھیس۔ چارہ۔
توزیع - (توزیع) (رع-۱-مٹ) (۱) پراگندہ کرنا۔ بانٹنا (۲) جمع بندی۔
توزیع حال - (رع-۱-ف) ہر بیٹے کا حساب۔ جس میں ہر مالک کا زرمطالعہ اور تحصیل اور باقی درج ہو۔
توس - (انگریزی Toast) کا ہند۔ (۱) مذ ڈبل روٹی کا پتلا ٹکڑا۔ جسے گھی لگا کر سینکے ہیں۔
توسدان - (توس-دان) (ف-۱-مذ) کار توس رکھنے کا چھوٹا بکس۔ جو سہا بیوں کی کمرے بندھا رہتا ہے۔
توسط - (ت-وس-سط) (رع-۱-مذ) (۱) اعتدال۔ میانہ روی (۲) درمیان۔ بیچ (۳) ذریعہ۔ وسیلہ۔
توسل - (ت-وس-سل) (رع-۱-مذ) (۱) وسیلہ ڈھونڈنا۔ کسی کو بیچ میں ڈالنا (۲) ذریعہ۔ سفارش۔ وسیلہ۔
توسن - (توسن) (ف-۱-مذ) گھوڑا۔ اسپ۔
توسن اڑانا - (وا-محاورہ) گھوڑا دوڑانا۔
توسن بھڑکنا - (وا-محاورہ) گھوڑے کا بیت تیز دوڑنا۔
توسن چمکانا - (وا-محاورہ) گھوڑا تیز کرنا۔
توسن چھیننا - (وا-محاورہ) (۱) گھوڑا تیز ہونا (۲) گھوڑے کا ڈرہانا۔
توسن قلم - (قلم) کلک - (ف-۱-مذ) قلم کو توسن سے استعارہ کرتے ہیں۔
توسیع - (توسیع) (رع-۱-مٹ) (۱) فراخ کرنا۔ وسعت کرنا۔ کشادہ کرنا۔ (۲) وسعت۔ کشادگی۔
توسیع اشاعت - کسی چیز کی اشاعت بڑھانا۔ زیادہ کرنا۔
توسیع زبان - زبان کو وسعت دینا۔ زبان میں نئے الفاظ اور محاورات داخل کرنا۔
توسیع ملازمت - قانونی مدت ملازمت ختم ہو جانے پر کسی خاص مزدور یا رعایت سے مدت میں اضافہ کر دینا۔
توش - (ف-۱-مذ) (۱) طاقت۔ قوت (۲) بدن تن (۳) ایک وقت کے کھانے کے لیے کافی خوراک۔ اردو میں تن دوش کی ترکیب سے استعمال ہوتا ہے۔
توشدان - توشہ دان - وہ برتن جس میں سفر کی خوراک رکھتے ہیں۔
توشک - (توشک) (ف-۱-مٹ) رونی دار بستر گدیلا۔ گجھا۔ ہنالی۔
توشک خانہ - (۱) وہ مکان جس میں امیدوں کی پوشاک اور سامان مستغرق رہتا ہے (۲) وہ جگہ جہاں سامان خانہ داری رہتا ہے۔
توشہ - (توشہ) (ف-۱-مذ) (۱) رازہ راہ۔ وہ کھانا جو مسافر تھکے لے جائے۔

توڑا - (توڑا) (۱-۱-مذ) (۱) کمی۔ قلت۔ قحط (۲) نقصان۔ خسار۔ ٹوٹا (۳) ہندوق داغنے کا قیتلہ (۴) رسی کا ٹکڑا (۵) بیل کی لمبی ٹکڑی۔ جس کے دونوں طرف بیل جھٹے ہیں (۶) ناچ میں گت کا سلسلہ توڑ کر کوئی اور حرکت کرنا (۷) اشرفیوں یا روپوں کی پھیل (۸) سونے یا چاندی کی زنجیر جو جھٹکے میں پہنتے ہیں (۹) سونے یا چاندی کی زنجیر جو پگڑی پر پہنتے ہیں (۱۰) ریت کا بڑیرہ جو دریا یا سمندر میں بن جائے (۱۱) توڑنا کا نامی۔
توڑا ٹوڑنا - (وا-محاورہ) کمی ہونا۔ قحط ہونا۔
توڑا خانہ - (وا-محاورہ) (۱) ٹوٹا (۲) کم غذا ملنا (۳) کم غذا سے طاقت گھٹانا۔
توڑا ڈالنا - (وا-محاورہ) کمی کرنا۔ تنگی دینا۔
توڑا لگنا - (وا-محاورہ) گھٹا پڑنا۔ خسارہ ہونا۔ نقصان ہونا۔
توڑا مروڑی - (وا-مٹ) (۱) ہاتھ پائی۔ چھینا چھین کرنا۔ (۲) زلنا۔ (۳) توڑنا۔ مروڑنا۔
توڑا ہونا - (وا-محاورہ) کمی ہونا۔
توڑے دار ہندوق - (مٹ) وہ ہندوق جو قیتلے کے ذریعے سے چھوڑی جائے۔
توڑے کا منہ کھول دینا - (وا-محاورہ) بہت بخشش اور فیاضی کرنا۔ رو بہ لٹانا۔
توڑے لینا - (وا-مٹ) رقص میں گت کے سلسلے توڑ کر درمیان میں کوئی اور حرکت کر کے پھر گت کے اسی سلسلے میں مل جانا۔
توڑنا - (توڑنا) (وا-مٹ) (۱) مٹنے کرنا۔ ٹکستہ کرنا۔ جڈا کرنا۔ علیحدہ کرنا۔ (۲) چور چور کرنا۔ پاش پاش کرنا (۳) دوڑ کرنا۔ مٹانا (۴) گرانہ۔ ڈھانا۔ مہندم کرنا (۵) ہلچلی مارنا (۶) کمزور کرنا (۷) بیل سے جوتنا (۸) دوش کرنا (۹) نفاق ڈالنا۔ لڑائی کرنا (۱۰) اڑا لے بکارت کرنا (۱۱) بر کرنا (۱۲) مسخ کرنا (۱۳) گنوں میں سے اتنا پانی نکالنا کہ ریت آنے لگے۔ (۱۴) پانی بغیر باری کے لگا لینا (۱۵) ہنر سے پانی لینا (۱۶) قطع تعلق کر لینا (۱۷) چٹول وغیرہ چھینا۔ اکٹھا کرنا (۱۸) نقب لگانا (۱۹) قلعہ فتح کرنا۔ لے لینا (۲۰) منہ کھلنا (۲۱) ایسی بات کہنا کہ مخاطب جواب نہ دے سکے (۲۲) آگواہ لاینا۔ اپنی طرف کر لینا (۲۳) قفل ٹکستہ کر کے کھولنا۔ چوری کر لینا (۲۴) نقصان پہنچانا۔ دیوالہ نکلوا دینا۔ (۲۵) (روپیہ) بھنانا۔ خوردہ کرنا (۲۶) (دل) نا امید کرنا۔ ٹکستہ دل کرنا (۲۷) (رحمت) حوصلہ کم کر دینا (۲۸) (حکمہ) موقوف کر دینا (۲۹) (رہے) کم کر دینا۔ تھنزل کر دینا۔ تنخواہ میں کمی کر دینا (۳۰) (دانت) ضرب سے توڑ دینا یا نکال دینا (۳۱) (روٹیاں) کام نہ کرنا اور مصفت کھانا (۳۲) (قسم وعدہ وغیرہ) پورا نہ کرنا (۳۳) (قانون۔ رسم وغیرہ) برخلاف ان کے کام کرنا (۳۴) (اعضاد) بہت مارنا (۳۵) (پتھر) سخت شکل کام کرنا (۳۶) (جان) بہت کام کرنا۔ محنت سے کام کرنا (۳۷) (ڈانٹیں) بہت چلنا۔ بہت کام کرنا (۳۸) ملی گا کسی پرندے کو زخمی کرنا (۳۹) علم حساب میں بڑی رقم کو چھوٹے اجزاء میں کرنا (۴۰) ٹوٹنا کا متعدی
توڑنا چھوڑنا - (وا-محاورہ) ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔ ٹکستہ کرنا۔
توڑنا جوڑنا - (وا-محاورہ) (۱) بانٹنا (۲) بگاڑنا۔ سنوارنا۔

تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ - میں نے خدا پر بھروسہ کیا۔ اس وقت بولتے ہیں جب سب کچھ چھوڑ کر خدا پر بھروسہ کر کے مبرا کہتے ہیں۔

تَوَكَّلِي - (تَوَكَّلِيں) دیکھ کرنا۔ کام سپرد کرنا (۲) کسی پر کوئی کام چھوڑ دینا۔
تَوَلَّى - (تَوَلَّى) (۱) - مذمت (۲) - ذرا - (۳) - جابج - اندازہ (۲) - مقررہ وزن - (۳) - ہم سبز - برابر (ق)

تَوَلَّى كِتَابِي - (۱) - محاورہ (۲) - روپیہ وزن میں پورا نہیں۔

تَوَلَّى لِيْنَا - (۱) - محاورہ (۲) - ذرا کرنا۔ آزمانا۔ جابج لینا (۲) - وقت اور قابلیت کی جابج کرنا۔ امتحان کرنا (۳) - تلوار کو ہاتھ میں لے کر جابج کرنا۔

(۴) - محبت کی آزمائش کرنا (۵) - بات کو اچھی طرح سمجھنا۔

تَوَلَّى - (تَوَلَّى) (۱) - مذ (۲) - بازار میں تولنے کا کام کرنے والا۔

تَوَلَّى - (تَوَلَّى) (۱) - مذ (۲) - محبت رکھنا (۲) - محبت۔ اُلفت۔ پیار۔

تَوَلَّى - (تَوَلَّى) (۱) - مذ (۲) - بارہ ماٹے کا وزن۔

تَوَلَّى بَحْرِي - (۱) - صفت (۲) - وزن میں ایک تولا۔

تَوَلَّى بَحْرِي - (۱) - صفت (۲) - غصہ آٹھ سو کر کے بہت احسان جتانے کے نانی بولے فارسی موعظ پر کہتے ہیں۔ نقلی یا سنی کے موعظ پر بھی کہتے ہیں۔

تَوَلَّى مَاشِي - (۱) - صفت (۲) - غیر مستقل مزاج۔ وہ جو گھڑی میں کچھ گھڑی میں کچھ ہو۔

تَوَلَّى لِي - (تَوَلَّى) (۱) - صفت (۲) - محبت رکھنے والا شخص (۲) - سینوں پر کا وہ فرقہ جو تہتر آئے کرے۔

تَوَلَّى - (تَوَلَّى) (۱) - مذ (۲) - پیدا ہونا (۲) - پیدائش۔ جنم۔

تَوَلَّى - (تَوَلَّى) (۱) - صفت (۲) - جس پر بہت سا طلالی کام ہوا ہو (کپڑا)

تَوَلَّى - (تَوَلَّى) (۱) - مذ (۲) - دیکھے تولا۔

تَوَلَّى - (تَوَلَّى) (۱) - مذ (۲) - لیا رومال جس سے ہاتھ پونچھتے یا ہانکر بدن خشک کرتے ہیں۔ (انگ) (Towel)

تَوَلَّى - (تَوَلَّى) (۱) - صفت (۲) - حاکم بنانا۔ افسر کرنا (۲) - مبرا ہی۔ نگرانی۔ انتظام۔

تَوَلَّى نَامِي - (۱) - صفت (۲) - ذرا ولی بنانے کی تحریر۔

تَوَلَّى بَحْرِي - (تَوَلَّى) (۱) - صفت (۲) - پیدارنا (۲) - پیدادار۔

تَوَلَّى مَارِي - (تَوَلَّى) (۱) - مذ (۲) - دیکھے طومار۔

تَوَلَّى مَانِي - (تَوَلَّى) (۱) - مذ (۲) - ایک ایرانی سکہ۔

تَوَلَّى مَاطِي - (تَوَلَّى) (۱) - مذ (۲) - خول (۲) - فقیروں کا برتن جو کدو کو لٹکا کر درانداز سے خالی کر کے بناتے ہیں۔

تَوَلَّى مَاطِي - (تَوَلَّى) (۱) - مذ (۲) - ایک ساز جو توبے کا بناتے ہیں (۲) - چھوٹا ترنا جو کھینے ہوئے توبے کا فقیروں کا برتن (۳) - پیسوں کی بین (۴) - گر گچھ یا گھڑیوں کی تھوٹھی (۵) - چراغ جو ٹوٹی یا تروڑ کا بناتے ہیں (۶) - ایک قسم کی آتش بازی (۷) - ایک قسم کی سیٹی جو چھوٹے کدوسے بناتے ہیں (۸) - رسولی۔

تَوَلَّى مَاطِي - (تَوَلَّى) (۱) - مذ (۲) - بھروسہ۔ میرا برتن بھروسے۔ فقیروں کی صدا۔

تَوَلَّى مَاطِي - (تَوَلَّى) (۱) - مذ (۲) - رداں رداں جدا کرنا۔ رونی صاف کرنا۔ (۲) - عیب کھولنا۔ قلمی کھولنا۔

(۲) - وہ کھانا جو مڑے کے ساتھ لے جاتے ہیں اور اُسے دفن کرنے کے بعد فقراء میں تقسیم کر دیتے ہیں (۳) - کسی دلی یا بزرگ کی فاتحہ کا کھانا جو عرس کے دن تقسیم کیا جاتا ہے۔

تَوَشَّخَانِي - توشے خانہ۔ (۱) - مذ (۲) - وہ مکان جہاں کپڑے اور کھر کا سامان رکھا جائے۔

تَوَشَّخَانِي - (تَوَشَّخَانِي) (۱) - مذ (۲) - آخرت کا سامان۔ اعمال نیک۔

تَوَشَّخَانِي - (تَوَشَّخَانِي) (۱) - صفت (۲) - کھانا جو لاش کے دفن کرنے پر تقسیم کرتے ہیں۔

تَوَشَّخَانِي - (تَوَشَّخَانِي) (۱) - صفت (۲) - آرائش کرنا۔ سجانا (۲) - علم بیان کی ایک صفت جس میں شعروں کا پہلا حرف یا مصرعوں کے شروع کا ایک

ایک لفظ لینے سے کوئی عبارت بن جائے۔

تَوَشَّخَانِي - (تَوَشَّخَانِي) (۱) - صفت (۲) - وصف کرنا۔ خوبی بیان کرنا (۲) - صفت۔ خوبی۔

تَوَشَّخَانِي - (تَوَشَّخَانِي) (۱) - صفت (۲) - مالکداری کا نقشہ۔ جمع : توشیحات۔

تَوَشَّخَانِي - (تَوَشَّخَانِي) (۱) - صفت (۲) - افسردہ کرنا۔ ٹھکن کرنا (۲) - پست کرنا۔ ماز کرنا۔ عزو ڈھانا۔

تَوَشَّخَانِي - (تَوَشَّخَانِي) (۱) - صفت (۲) - وطن بنانا۔ وطن اختیار کرنا۔

تَوَشَّخَانِي - (تَوَشَّخَانِي) (۱) - صفت (۲) - ایک کام میں بہت لگا رہنا۔

تَوَشَّخَانِي - (تَوَشَّخَانِي) (۱) - صفت (۲) - دھن۔ لے۔

تَوَشَّخَانِي - (تَوَشَّخَانِي) (۱) - صفت (۲) - شور و غوغا (۳) - الزام۔

تَوَشَّخَانِي - (تَوَشَّخَانِي) (۱) - صفت (۲) - ہتھکا۔

تَوَشَّخَانِي - (تَوَشَّخَانِي) (۱) - صفت (۲) - بہتان۔

تَوَشَّخَانِي - (تَوَشَّخَانِي) (۱) - صفت (۲) - زیادتی۔ بہتات (۲) - پخت۔ باقی۔

تَوَشَّخَانِي - (تَوَشَّخَانِي) (۱) - صفت (۲) - برابر اور واقع کرنا (۲) - خدا شنائی کا بندہ کی خواہش کے موافق نیک اسباب بہم پہنچانا (۳) - ہدایت۔ رہنمائی۔

تَوَشَّخَانِي - (تَوَشَّخَانِي) (۱) - صفت (۲) - ہمت۔ طاقت۔ حوصلہ۔ جمع : توفیقات۔

تَوَشَّخَانِي - (تَوَشَّخَانِي) (۱) - صفت (۲) - نیک کاموں کی ہمت۔

تَوَشَّخَانِي - (تَوَشَّخَانِي) (۱) - صفت (۲) - ہمت ہونا۔ حوصلہ ہونا۔

تَوَشَّخَانِي - (تَوَشَّخَانِي) (۱) - صفت (۲) - امید۔ بھروسہ۔ آس۔ جمع : توفیقات۔

تَوَشَّخَانِي - (تَوَشَّخَانِي) (۱) - صفت (۲) - وقف۔ وقفہ۔ ڈھیل۔

تَوَشَّخَانِي - (تَوَشَّخَانِي) (۱) - صفت (۲) - عزت۔ وقعت۔ تعظیم و تکریم۔

تَوَشَّخَانِي - (تَوَشَّخَانِي) (۱) - صفت (۲) - شایہ دستخط (۲) - شایہ لٹکا کر دستخط کرنا (۳) - شایہ فرمان۔

تَوَشَّخَانِي - (تَوَشَّخَانِي) (۱) - صفت (۲) - اوقات یا وقفے کا التزام کیا گیا جو (۲) - شرعی اصطلاح، اندھیاں کی بھڑائی ہوتی۔

تَوَشَّخَانِي - (تَوَشَّخَانِي) (۱) - صفت (۲) - اپنے کام کو کسی کے حوالے کرنا (۲) - اپنے عجز کا اقرار کرنا (۳) - کسی کو دیکھنا بنانا۔

تَوَشَّخَانِي - (تَوَشَّخَانِي) (۱) - صفت (۲) - خدا پر بھروسہ کرنا۔

تَوَشَّخَانِي - (تَوَشَّخَانِي) (۱) - صفت (۲) - بیکار بیٹھنا۔ خالی بیٹھنا۔

تَوَشَّخَانِي - (تَوَشَّخَانِي) (۱) - صفت (۲) - اپنے سب کام خدا پر چھوڑ دینا (۲) - بیکار بیٹھنا۔ خالی بیٹھنا۔

تو مریا۔ (تو مریا) یا (ہ۔ ا۔ مذ) بہت باریک اور عمدہ کتا ہوا سوت۔
 توں تال کرنا۔ (۱۔ محاورہ) توڑتیں میں کرنا۔ گالی گلوچ کرنا۔ بڑانا۔ جھگڑانا۔
 توکان۔ (ت۔ ف۔ ا۔ مذ) (۱) رگم۔ بچہ دان (۲) حمام (۳) بھٹاڑ (۴) کھورا۔
 توکانا۔ (تو۔ نا) (ہ۔ مص) جانور کا عمل کرنا۔
 توکانا۔ (تو۔ نا) (ہ۔ ا۔ مذ) ایک قسم کا تلخ لکڑو جس کا چھلکا بہت موٹا
 ہوتا ہے اور غیر کھٹا کر کھول بناتے ہیں۔
 توکینی۔ (تو۔ ی) (ہ۔ ا۔ مذ) (۱) چھوٹا کھول (۲) چھوٹا کدو۔
 توکینی یا کھڑ میں لینا۔ (۱۔ محاورہ) فقیر بننا۔ جوگی بننا۔
 توکند۔ (ہ۔ ا۔ مذ) بڑا پیٹ۔
 توکند۔ (ہ۔ ا۔ مذ) پیٹ کا اچھا۔
 توکندالا۔ توکندل۔ توکندو۔ (ہ۔ صفت) بڑے پیٹ والا۔
 توکس۔ (ہ۔ ا۔ مذ) (۱) وہ پیاس، جو کسی طرح نہ بجھے (۲) دھوپ
 کی شدت۔
 توکسنا۔ (تو۔ کس۔ نا) (ہ۔ مص) (۱) آفتاب کی گرمی سے بے تاب یا مضمحل
 ہونا (۲) سخت پیاس لگانا۔
 توکمر۔ (ت۔ صفت) مالدار۔ دولت مند۔ امیر۔
 توکمری۔ (ت۔ ا۔ مذ) دولت مندی۔ خوشحالی۔
 توکمری بدل سمت نہ مال۔ (ت۔ فعل) امیری دل سے ہوتی
 ہے مال سے نہیں۔
 توکم۔ (ت۔ ہ۔ ہ۔ مج) (۱) دم۔ دوسرا۔ شک۔ گمان۔
 توکین۔ (تو۔ کین) (ت۔ ا۔ مذ) (۱) منہ جھک۔ بے عزتی۔ ذلت۔
 توکین عدالت۔ (ت۔ ا۔ مذ) عدالت کی ہتک۔ کوئی ایسا لفظ جو
 حق سمانے کہہ دینا یا کوئی ایسا کام کرنا۔ جس سے عدالت کی اختیار پائی
 جاتی ہو۔
 توئی۔ (تو۔ ی) (ہ۔ ا۔ مذ) کپڑے پر بنی ہوئی ایک قسم کی بیل جو دو پٹوں
 وغیرہ کے کنارے پر لگاتے ہیں۔
 توی۔ (ت۔ دی) (ہ۔ ا۔ مذ) بڑا تو۔ جس پر ایک ہی وقت میں بہت
 سی روٹیاں پک سکتی ہیں۔
 توی کی روئی۔ وہ روئی جو توی پر پکائی جائے۔
 توے کی تیری یا تھر کی تیری۔ (۱۔ اصل) دوسرے کی جلدی کا اظہار
 کرنے کے لیے کہا جاتا ہے (۲) بہت فائدہ میرا کھوڑا تیرا۔

ت۔ ہ

تہ۔ (ت۔ ہ۔ ا۔ مذ) (۱) پھلا۔ (۲) تہی (۳) تہا۔ (۴) تہا۔ (۵) تہا۔ (۶) تہا۔ (۷) تہا۔ (۸) تہا۔
 (۹) تہا۔ (۱۰) تہا۔ (۱۱) تہا۔ (۱۲) تہا۔ (۱۳) تہا۔ (۱۴) تہا۔ (۱۵) تہا۔ (۱۶) تہا۔ (۱۷) تہا۔ (۱۸) تہا۔
 تہک۔ (تہ۔ ک۔ ہ۔ ا۔ مذ) (۱) تہک۔ (۲) تہک۔ (۳) تہک۔ (۴) تہک۔ (۵) تہک۔ (۶) تہک۔ (۷) تہک۔ (۸) تہک۔
 تہک۔ (تہ۔ ک۔ ہ۔ ا۔ مذ) (۱) تہک۔ (۲) تہک۔ (۳) تہک۔ (۴) تہک۔ (۵) تہک۔ (۶) تہک۔ (۷) تہک۔ (۸) تہک۔
 تہک۔ (تہ۔ ک۔ ہ۔ ا۔ مذ) (۱) تہک۔ (۲) تہک۔ (۳) تہک۔ (۴) تہک۔ (۵) تہک۔ (۶) تہک۔ (۷) تہک۔ (۸) تہک۔
 تہک۔ (تہ۔ ک۔ ہ۔ ا۔ مذ) (۱) تہک۔ (۲) تہک۔ (۳) تہک۔ (۴) تہک۔ (۵) تہک۔ (۶) تہک۔ (۷) تہک۔ (۸) تہک۔

تہ مارنا - (۱- محاورہ) (۱) گھوڑے کی ایک بیماری جس میں سخت پیاس لگتی ہے۔

تہ ملانا - (۱- محاورہ) جوڑا لگانا۔ نر کے ساتھ مادہ کو ملانا۔

تہ میں بیٹھ جانا - (۱- محاورہ) (۱) نیچے بیٹھ جانا۔ ڈوب جانا (۲) کسی کے دل میں ٹھکرنا۔ بھید لے لینا۔

تہ نال - (ف - ۱- مذ) (۱) لوہے کا ٹکڑا جو تلوار کے قبضے کے نیچے ہوتا ہے۔

(۲) نیام کے نیچے کا حصہ جس میں تلوار کا پیلا رہتا ہے۔

تہ نامہ - (ف - ۱- مذ) افران نامہ۔ عہد نامہ۔

تہ نشان - (ف - ۱- مذ) وہ سونے یا چھاسرات کا کام جو تلوار کے قبضے پر ہوتا ہے

تہ نشین - (ف - ۱- صفت) (۱) نیچے یا تہ میں بیٹھے والا (۲) ذہن میں آجانے والا۔ دل میں بیٹھ جانے والا (۳) چھٹ۔

تہ نکالنا - (۱- محاورہ) اصل بات کو باجانا۔ رمز پہچاننا۔

تہ نہیں ٹوٹی - (۱- محاورہ) کپڑا بالکل نیا ہے۔

تہ و پالا - (ف - ۱- صفت) زیر وزیر نیچے اور نائب ملٹ۔

تہا ہی رکھ چھوڑنا - (۱- محاورہ) احتیاط سے رکھنا۔ استعمال میں نہ لانا۔

تہاں - (ت - ہاں) (۱) وہاں۔ (۲) اُس جگہ۔ (۳) اُدھر (۴) تب۔ اس موقع پر۔

تہانا - (ت - ہاں) (۱) وہاں۔ (۲) اُدھر۔ (۳) تب۔ اس موقع پر۔

تہاؤن - (ت - ہاؤن) (۱) نفرت۔ (۲) بغض۔

تہا پر دانی - سستی۔

تہلی - (ت - ہا) (۱) (۱) تہا پر دانی۔ (۲) تہا پر دانی۔ (۳) تہا پر دانی۔

تہلیج - (ت - ہب) (۱) تہلیج۔ (۲) تہلیج۔ (۳) تہلیج۔ (۴) تہلیج۔

تہلیج - (ت - ہب) (۱) تہلیج۔ (۲) تہلیج۔ (۳) تہلیج۔ (۴) تہلیج۔

تہلیج - (ت - ہب) (۱) تہلیج۔ (۲) تہلیج۔ (۳) تہلیج۔ (۴) تہلیج۔

تہلیج - (ت - ہب) (۱) تہلیج۔ (۲) تہلیج۔ (۳) تہلیج۔ (۴) تہلیج۔

تہلیج - (ت - ہب) (۱) تہلیج۔ (۲) تہلیج۔ (۳) تہلیج۔ (۴) تہلیج۔

تہلیج - (ت - ہب) (۱) تہلیج۔ (۲) تہلیج۔ (۳) تہلیج۔ (۴) تہلیج۔

تہلیج - (ت - ہب) (۱) تہلیج۔ (۲) تہلیج۔ (۳) تہلیج۔ (۴) تہلیج۔

تہلیج - (ت - ہب) (۱) تہلیج۔ (۲) تہلیج۔ (۳) تہلیج۔ (۴) تہلیج۔

تہلیج - (ت - ہب) (۱) تہلیج۔ (۲) تہلیج۔ (۳) تہلیج۔ (۴) تہلیج۔

تہلیج - (ت - ہب) (۱) تہلیج۔ (۲) تہلیج۔ (۳) تہلیج۔ (۴) تہلیج۔

تہلیج - (ت - ہب) (۱) تہلیج۔ (۲) تہلیج۔ (۳) تہلیج۔ (۴) تہلیج۔

تہلیج - (ت - ہب) (۱) تہلیج۔ (۲) تہلیج۔ (۳) تہلیج۔ (۴) تہلیج۔

تہلیج - (ت - ہب) (۱) تہلیج۔ (۲) تہلیج۔ (۳) تہلیج۔ (۴) تہلیج۔

تہلیج - (ت - ہب) (۱) تہلیج۔ (۲) تہلیج۔ (۳) تہلیج۔ (۴) تہلیج۔

تہلیج - (ت - ہب) (۱) تہلیج۔ (۲) تہلیج۔ (۳) تہلیج۔ (۴) تہلیج۔

تہلیج - (ت - ہب) (۱) تہلیج۔ (۲) تہلیج۔ (۳) تہلیج۔ (۴) تہلیج۔

تہلیج - (ت - ہب) (۱) تہلیج۔ (۲) تہلیج۔ (۳) تہلیج۔ (۴) تہلیج۔

ڈال کر پکاتے اور ہلدی کا رنگ دیتے ہیں۔

پتھری - (تہ - ہری) (۱) وہ صفت ہے کہ موٹھ، تین لگی۔

پتھری سواری - (۱) پانی وغیرہ میں تین آدمیوں کا سواری ہونا۔

پتھریج - (تہ - رتج) (۱) (۱) مال گزارے سے متعلق ایک قسم کا کاغذ۔

پتھریج - (تہ - رتج) (۱) (۱) مال گزارے سے متعلق ایک قسم کا کاغذ۔

پتھریج - (تہ - رتج) (۱) (۱) مال گزارے سے متعلق ایک قسم کا کاغذ۔

پتھریج - (تہ - رتج) (۱) (۱) مال گزارے سے متعلق ایک قسم کا کاغذ۔

پتھریج - (تہ - رتج) (۱) (۱) مال گزارے سے متعلق ایک قسم کا کاغذ۔

پتھریج - (تہ - رتج) (۱) (۱) مال گزارے سے متعلق ایک قسم کا کاغذ۔

پتھریج - (تہ - رتج) (۱) (۱) مال گزارے سے متعلق ایک قسم کا کاغذ۔

پتھریج - (تہ - رتج) (۱) (۱) مال گزارے سے متعلق ایک قسم کا کاغذ۔

پتھریج - (تہ - رتج) (۱) (۱) مال گزارے سے متعلق ایک قسم کا کاغذ۔

پتھریج - (تہ - رتج) (۱) (۱) مال گزارے سے متعلق ایک قسم کا کاغذ۔

پتھریج - (تہ - رتج) (۱) (۱) مال گزارے سے متعلق ایک قسم کا کاغذ۔

پتھریج - (تہ - رتج) (۱) (۱) مال گزارے سے متعلق ایک قسم کا کاغذ۔

پتھریج - (تہ - رتج) (۱) (۱) مال گزارے سے متعلق ایک قسم کا کاغذ۔

پتھریج - (تہ - رتج) (۱) (۱) مال گزارے سے متعلق ایک قسم کا کاغذ۔

پتھریج - (تہ - رتج) (۱) (۱) مال گزارے سے متعلق ایک قسم کا کاغذ۔

پتھریج - (تہ - رتج) (۱) (۱) مال گزارے سے متعلق ایک قسم کا کاغذ۔

پتھریج - (تہ - رتج) (۱) (۱) مال گزارے سے متعلق ایک قسم کا کاغذ۔

پتھریج - (تہ - رتج) (۱) (۱) مال گزارے سے متعلق ایک قسم کا کاغذ۔

پتھریج - (تہ - رتج) (۱) (۱) مال گزارے سے متعلق ایک قسم کا کاغذ۔

پتھریج - (تہ - رتج) (۱) (۱) مال گزارے سے متعلق ایک قسم کا کاغذ۔

پتھریج - (تہ - رتج) (۱) (۱) مال گزارے سے متعلق ایک قسم کا کاغذ۔

پتھریج - (تہ - رتج) (۱) (۱) مال گزارے سے متعلق ایک قسم کا کاغذ۔

پتھریج - (تہ - رتج) (۱) (۱) مال گزارے سے متعلق ایک قسم کا کاغذ۔

پتھریج - (تہ - رتج) (۱) (۱) مال گزارے سے متعلق ایک قسم کا کاغذ۔

پتھریج - (تہ - رتج) (۱) (۱) مال گزارے سے متعلق ایک قسم کا کاغذ۔

پتھریج - (تہ - رتج) (۱) (۱) مال گزارے سے متعلق ایک قسم کا کاغذ۔

پتھریج - (تہ - رتج) (۱) (۱) مال گزارے سے متعلق ایک قسم کا کاغذ۔

پتھریج - (تہ - رتج) (۱) (۱) مال گزارے سے متعلق ایک قسم کا کاغذ۔

پتھریج - (تہ - رتج) (۱) (۱) مال گزارے سے متعلق ایک قسم کا کاغذ۔

پتھریج - (تہ - رتج) (۱) (۱) مال گزارے سے متعلق ایک قسم کا کاغذ۔

پتھریج - (تہ - رتج) (۱) (۱) مال گزارے سے متعلق ایک قسم کا کاغذ۔

پتھریج - (تہ - رتج) (۱) (۱) مال گزارے سے متعلق ایک قسم کا کاغذ۔

تہی مغز - اتمق - بے وقوف - سادہ لوح -
 شہیں - (ہجی، ن،) (ق) توہی -
 ہیتہ - (ت - ہی، یہ،) (ع - ۱ - مذ) (۱) مستدی - آمادگی (۲) سامان - انتقام -

کرنا (۲) سانپ کے کانٹے ہونے کے آگے عقالی کی آواز کے ساتھ منتر پڑھنا
 (۳) پھر پیدا ہونے پر اس کا ڈرنکانے کے لیے تھالی سے آواز بیدار کرنا -
 تھالی پر سے چھو کا ہمیں اٹھا جاتا - (دش) کھانا ستنے ہو تو آدی
 بغیر سیر ہوسے نہیں اٹھتا -

تھالی پھرانا - (۱) محاورہ) مداروں کا ایک کرتب -
 تھالی پھرنا - (۱) محاورہ) سخت ہجوم ہونا کہ تھالی پھینکی جائے تو سردوں
 برابر ہی تھے - زمین پر نہ گئے -

تھالی چھوٹی توجھوٹی جھنکار تو سنی - (دش) نقصان ہوا، اگر مطلب
 تو اس میں ہو گیا جب کوئی بے عزت آدمی پردہ فاش ہونے پر خوش ہوتا کہتے ہیں -
 تھالی پھینکو تو زمین پر نہ گئے (۱) (دش) بہت ہجوم ظاہر کرنے
 تھالی پھینکو تو زمین پر نہ گئے (۱) کے موقع پر ہوتے ہیں -

تھالی کا بتیلن - (۱) (مذ) غیر مستعمل مزاج شخص - رکابی مذہب - وہ جو
 لاج کے باعث کبھی کسی طرف ہو، کبھی کسی طرف -
 تھالی گری - جھنکار سب نے سنی - (دش) جب کوئی بڑی بات ہوتی
 ہے تو ہر کسی کو خبر ہوتی ہے -

تھام - (ق - ۱ - مذ) مقام -

تھامنا - (مقام - نا) (۱) (مض) (۱) ہاتھ سے پکڑنا - (۲) سہارا دینا - آسرا دینا -
 (۳) مدد دینا (۴) روکنا (۵) پھرانا (۶) حفاظت کرنا - بچانا -

تھان - (۱ - ۵ - مذ) (۱) بگڑا - (۲) موقع - مقام (۳) مکان - رہنے کی جگہ (۴) گھوڑے
 یا تھی یا مویشی کا طویل - اصطلح (۵) گھاس جو گھوڑے کے نیچے پھانچا دیتے
 ہیں - (۶) کپڑے - ریشم - گوٹے وغیرہ کا میسنہ لہانی کا ٹکڑا (۷) ایک ٹکڑ
 سکر (۸) اکائی - ایک عدد -

تھان پر باندھنا - (۱) محاورہ) (۱) گھوڑے کو اس کی جگہ پر یا طویلے میں
 رے سے باندھنا (۲) کسی شرارت یا بڑے کام سے روکنا -

تھان کا ٹرا - (۱) (صفت) (۱) تھان پر شرارت کرنے والا (۲) عجزا
 وہ شخص جو گھر پر بہت شیخی بگھارے - گلی کا کتا -

تھان کا ستیا - (۱) (صفت) گھوڑا جو چھوٹا کر گھرا جائے -

تھان میں آنا - گھوڑے کا تھان اتارنے کے لئے خاک میں لوٹنا -
 تھان سے تھان - (۱) محاورہ) ساتیس اس وقت کہتے ہیں جب گھوڑا
 سوتے ہوئے یکا یک ڈر کر ہنسانے -

تھانب - (ق - ۱ - مذ) تھان - ستون - قلم -

تھانک - (۱ - ۵ - مذ) (۱) ٹھنک جگہ یا گرم خندہ چیز کا موقع (۲) چوروں کا
 مقام (۳) مال سرفہ کا پتا (۴) کھوج - نشان (۵) سازش - ہنید -

تھانک دار - (۱ - ۵ - صفت) وہ شخص جو چوری کا مال لے کر چھپ چھپ
 فرختہ کرنے کا عادی ہو -

تھانک گیری - (۱ - ۵ - صفت) چوری کا مال خریدنا -

تھانک لگانا - (۱) محاورہ) (۱) چوروں کو پناہ دینا (۲) سزا لگانا -
 چوروں کا پناہ لگانا -

تھانکنا - (تھانک - نا) (۵) (مض) [سزا لگانا -

تھانکی - تھانکیا - (تھان - گی) (تھان - گب - یا) (۵) (صفت) (۱) چوروں کا

تھ

تھا - (فعل ناقص) ماضی بید کی علامت -

تھااب - (۱ - ۵ - مذ) (۱) تھپتھپ - تھپتھپ - تھپکی (۲) تھپے کی آواز - ڈھوک
 چلی آواز -

تھااب پڑنا (لگانا) - (۱) محاورہ) (۱) تھپے پر ہاتھ کا حد سے پڑنا
 (۲) تھپک بچنا - راگ رنگ ہونا -

تھااب دینا - (۱) محاورہ) ناچ گانا موقوف کرنے کے لیے تھپے پر
 زور سے ہاتھ مارنا -

تھااب سہارنا - (۱) محاورہ) سختی یا مصیبت اٹھانا تکلیف سمیٹنا -

تھااب مارنا - (۱) شہکار تھپتھپ مارنا (۲) پیلوانوں کا ہاتھ پر تھپکی دینا -

(۳) تھپک بچانا (۴) گور تھااب کر دیوار پر مارنا -

تھاہا - (تھا - ہا) (۱ - ۵ - مذ) (۱) چوپائے کے پاؤں کا نشان (۲) ہاتھ کا پورا
 نشان، جو ہندی مل کر دیوار پر یا سدی کی کمر باندی کے موقع پر لگاتے
 ہیں (۳) مکان پر نشان، جو پور لگا دیتے ہیں، جہاں انھیں چوری کرنی
 ہو (۴) ترن کے تھپے کا نشان، جو تامل کے مکان پر لگا دیتے ہیں -

(۵) نشان - ہنر (۶) نئی گادہ نشان، جو زمیندار کھلیان پر لگا دیتے ہیں
 تاکہ کوئی چوری کرے، تو معلوم ہو جائے -

تھاہا پنا - (تھاہا - نا) (۵ - ۱ - صفت) (۱) ہاتھنا - (۲) پائے بنانا (۲) مورتی کی پوجا کرنا -

تھاہائی - (تھاہائی - ۵ - ۱ - مذ) (۱) تھپکی (۲) تھاپنے کی آواز (۳) کہنا کا
 آواز، جس سے وہ برتن گھرتا ہے (۴) مہار کا آواز جس سے وہ مٹی
 یا پونجا کوڑتا ہے (۵) کرکٹ - بیس وغیرہ کا پلا (۶) چھوٹا پلا -

تھاہک - (۵ - ۱ - مذ) (۱) صدکی پکی بڑی (۲) تھان (ق)
 تھاہک بست - (۵ - ۱ - مذ) (۱) صد بندی -

تھاہکا - (ق - مذ) تھکا ہو -

تھاہل - (۵ - ۱ - مذ) (۱) دھات کا بڑا پیٹا یا گول برتن - خوان - طباق (۲)
 بعض تقریبوں کا خاص قسم کا کھانا (۳) لڑکیوں کا ایک کھیل -

تھاہل کھلائی - چھٹی کے بعد ایک رسم جس میں تھاہل میں شکر اور اس
 پر گھی، شکر اور میوہ ڈال کر زیر کھلاتے ہیں - زچر کے بعد اوسہا گھنٹی پکارتے ہیں
 تھاہل لگانا - (۱) محاورہ) تھاہل پر کھانا پھینکا -

تھاہلا - (تھاہلا - ۵ - ۱ - مذ) (۱) درختوں کے گرد پانی دینے کا کم گہرا گڑھا -
 (۲) وہ گڑھا جس میں درخت لگا یا جائے -

تھاہلی - (تھاہلی - ۵ - ۱ - مذ) (۱) دھات کا چھوٹا، گول، چھپتا برتن، جس
 میں عموماً روٹیاں اور کھانا رکھتے ہیں (۲) نشتری - رکابی (۳) گلاس
 وغیرہ کے نیچے بورتھ رکھا جائے -

تھاہلی بچانا - (۱) محاورہ) (۱) تھاہلی پر ہاتھ یا کوئی چیز مار کر آواز پیدا

تھکا - (تھک - کا) (۵ - صفت) (۱) جما ہوا (۲) کوئی بھی موٹی چیز (۳) ڈلا - ڈھیلا - لوٹا (۴) ڈھیر - انبار -
تھکا (فصاحت) فصیحی - (تھک - کا - فن - جی - تی - وہ - ۱ - مٹ) (۱) یعنی طین - گالی کلون (۲) بے عزتی - بے شرمی (۳) جھگڑا - لڑائی - فساد -
تھکانا تھکوانا - (تھ - کا - نا) (تھک - وا - نا) (۵ - مص) دوسرے سے
تھکا وا - تھکا واٹ - (تھ - کا - وا) - (تھ - کا - واٹ) (۵ - ۱ - پہلا مذکر و لڑکھ)

تھکن - ماندگی -
تھکاؤ - تھکانی - (تھ - کا - اؤ) - (تھ - کا - ای) (۵ - ۱ - مٹ) تھکن - تھکان -
تھکانی - (تھ - کا - ای) (۵ - صفت) (۱) تھوکنے کے قابل (۲) کینڈہ - ریزیل -
 قابل نغزین -

تھک - تھک - (تھک - تھک) (۵ - صفت) (۱) جما ہوا (۲) بہت تر -
 بہت کھلا -

تھکتھکانا - (تھک - تھک - کا - نا) (۵ - مص) نظر بند سے بچنے کے لئے یا کسی
 بڑی بیماری کا نام لینے پر عورتوں کا تھوٹھو کرنا -
تھکم تھکا - (تھک - کم - تھک - کا) (۵ - ۱ - مذ) (۱) باہم تکرار ہونا - لڑائی
 جھگڑا -

تھکن - (تھکن - کن) (۵ - ۱ - مٹ) تھکان - ماندگی -
تھکن امانا - (۱ - ۱ - محاورہ) تھکان دُور کرنا - سستانا -

تھکنا - (تھک - نا) (۵ - مص) (۱) ش ہونا - محنت سے ماندہ ہونا (۲) عاجز
 ہونا - رہ جانا (۳) مایوس ہونا (۴) کام سے جاتا رہنا - بوڑھا ہونا -
 طاقت نہ رہنا - (۵) ہمت ہارنا (۶) گرگ جانا -

تھکسا - (تھک - یا - ق) (۵ - صفت) تمہیر -
تھکتیل - (تھ - تیل) (۵ - ۱ - مٹ) قابل نفرت عورت -

تھکی ہوتی آواز - (۵ - ۱ - مٹ) آواز - جو گانے یا چلاتے سے بھگتی ہو -
تھکا - تھکا - تھکا - تھکا - (۵ - ۱ - مٹ) کسی چیز کا پورا جما ہوا ٹکڑا جو کچھ چھوٹے ٹکڑے
 تھکنے کا وہی - (۵ - ۱ - مذ) جما ہوا دی -

تھکلا - (تھک - لا) (۵ - ۱ - مٹ) پیوند - جوڑ -
تھکلی - (تھک - لی) (۵ - ۱ - مٹ) (۱) کپڑے کا ٹکڑا (۲) پیوند - جوڑ (۳) ہتھوری
 کسی جگہ یا مکان - جھوٹا -

تھکلی لگانا - (۱ - ۱ - محاورہ) (۱) کپڑے میں پیوند لگانا - جوڑ لگانا (۲) رسائی
 حاصل کرنا (۳) دُور دراز مقام کی خبر لانا (۴) ہنایت چالاک یا دغا بازی
 کا کام کرنا -

تھل - (۵ - ۱ - مذ) (۱) خشک زمین (۲) خشکی (۳) جگہ - مقام (۴) شیر کے رہنے
 کی جگہ (۵) اونچی زمین (۶) ریگستان (۷) دینا سے جہلم اور اٹک کا درمیان
 ریگستان (۸) عیش کے گول پھول جلتی - جنہیں جہاں چاہیں ٹانگ
 لیں -

تھل اندر دیا - (۵ - ۱ - صفت) معدنیات کا علم -
تھل بیٹرا - (۵ - ۱ - مذ) گھاٹ - ناؤ یا جہاز کے ٹھرنے کی جگہ (۲) رہنے کی

تھرمی تھیوٹنا - (۱ - محاورہ) کیلیانا - کاپینا - تھرمنا - لرزنا -
 تھرم (Third) (۱) الگ - صفت) تھرم - سوم -

تھرم کلاس - (Third Class) تیسرا درجہ - درجہ سوم -
تھرکنا - (تھ - رک - نا) (۵ - مص) (۱) پھر کرنا - اعصاب کا حرکت کرنا (۲) تاجنا
 مٹانا (۳) بیٹے بھرنے سے چلنا (۴) بربند کا اڑ جانا - منڈلانا -

تھرمیٹر - (Thermometer) (تھرم - ما - می - ٹر) (انگ - ۱ - مذ) -
 میکانک حرارت - حرارت ماپنے کا آلہ -

تھرنا - (تھرم - نا) (۵ - مص) تھرنا - میل پھیل کاپانی کی تر میں بیٹھ جانا -
تھرم - (۵ - صفت) تھورٹا کا تخفیف - ذرا کم - مرکبات میں استعمال ہوتا ہے -
تھرم جانا (تھرم - نا) (۱ - محاورہ) (۱) کم ہونا - ناکافی ہونا - توڑا ہونا (۲)

تمام ہونا - ختم ہونا (۳) ناکام ہونا -
تھرم جیا - (۱ - صفت) پست ہمت - کم حوصلہ -
تھرم وٹا - (۱ - صفت) (۱) تنگ دل - کم ظرف (۲) بڑول - ڈرپوک کم حوصلہ

تھرا - (تھ - ٹرا) (۵ - ۱ - مذ) (۱) چوتھ - ڈکان یا مکان کے آگے کا چوتھ -
تھریٹ فارم (۲) بیٹھنے کی اونچی جگہ -
تھرم تھرا کرنا - (تھرم - تھ - ٹرا - کرنا) (۵ - مص) لعنت ملامت کرنا
 تھوٹھو کرنا - نغزین کرنا -

تھرمی - (تھرم - می) (۵ - ۱ - مٹ) (۱) کی - قات - توڑا (۲) لعنت - تھ (۳)
 بے عزتی بے عزتی (۴) نفرت سے تھوکن -

تھرمی تھرمی ہونا - رسوائی ہونا - بدنامی ہونا - لعنت ملامت ہونا -
تھک - (۵ - صفت) (۱) ماندہ - عاجز - سست - ہارا (۲) تھکنا کا امر -

تھک جانا - (۱ - محاورہ) ماندہ ہو جانا - عاجز ہو جانا -
تھک کر بیٹھ رہنا - (۱ - محاورہ) جی چھوڑ دینا - عاجز ہو کر کام چھوڑ دینا -
تھک کر سوڑا ہو جانا - (۱ - محاورہ) بے مدد محض ہونا - تھکان سے جوڑ جوڑ
 ڈھکنا - بہت تھک جانا - شل ہو جانا -

تھک مٹانا - تھکن دُور کرنا -
تھک - (۵ - ۱ - مٹ) تھوک کا تخفیف -

تھک بند کام کرنا - (۱ - محاورہ) تھوک سے جوڑ دینا - نہایت ناپائیدار
 کام بنانا - بودا کام کرنا -

تھک تھک ہونا - (۵ - محاورہ) فصیحی یا بے عزتی ہونا -
تھکا - (تھ - کا) (۵ - صفت) ہارا - ماندہ - عاجز - سست -

تھکا اونٹ سرائے کو (تھکا) دیکھتا ہے - (مٹ) مصیبت زدہ -
 غصی کا غالب ہوتا ہے - تھکا ہوا آدمی چھٹکارا حاصل کرنے کی خواہش
 کرتا ہے -

تھکا بیل - (۱ - صفت) (۱) مجازاً کام چور - بھول - بھلا - سست -
تھکا دینا - تھکانا - (مص) (۱) ماندہ کر دینا - ہر دینا - شل کر دینا (۲)
 دق کرنا - تنگ کرنا (۳) حیران کرنا - پریشان کرنا -

تھکا مارا - (۱ - صفت) محنت اور مشقت کر کے تھکا ہوا - ہارا تھکا -
تھکا مارنا - (۱ - محاورہ) (۱) تنگ کرنا - دق کرنا (۲) جی چھوڑ دینا - عاجز کر دینا
تھکا ماندہ - تھکا مارا - (۱ - صفت) بہت تھکا ہوا -

جگہ۔ مکان۔ گھر (۳) سڑاخ۔
 تھل بڑا تباہ ہونا۔ (۱) محاورہ) سارا خاندان اچھڑانا۔
 تھل بڑا لگانا۔ (۱) محاورہ) سائل مُراد پر پہنچانا۔ ٹھکانا لگانا۔
 تھل بڑا لگانا۔ (۱) محاورہ) سڑاخ لگانا۔ جیتا لگانا۔ ٹھکانا معلوم ہونا۔
 تھل بڑا نہ لگانا۔ (۱) محاورہ) ٹھکانا نہ لگانا۔ سہارا نہ ملنا (۲)
 تھل بڑا نہ ملنا۔
 تھل بڑا سے کھ دینا۔ (۱) محاورہ) ٹھکانے سے رکھ دینا۔
 تھل بڑا جانا۔ پھر جانا۔ (۱) محاورہ) ڈھیر یا انبار لگ جانا۔
 تھل سے بیٹھنا۔ (۱) محاورہ) اطمینان سے بیٹھنا۔ ٹھور ٹھکانے سے بیٹھنا۔
 تھل کترنا۔ (۱) محاورہ) متیش کے گل گل پھول تانا۔
 تھل تھل۔ (تھل تھل) (۱) صفت) ڈھیلنا۔ پھینس۔ موٹا (۲) ہلنے والا۔
 تھل تھل کرنا۔ تھل تھلنا۔ (۱) ہلنا۔ لرزنا (۲) مٹانے کی وجہ سے جسم کے
 گوشت کا ہلنا (۳) مٹی۔ ریت وغیرہ کا زیادہ پانی کی وجہ سے ہلنا۔
 تھل تھل۔ (تھل تھل) (۱) آہستہ آہستہ کرنا۔ ہوا۔ ٹپکتا ہوا۔ چمٹا ہوا۔
 تھل تھل۔ (تھل تھل) (۱) صفت) نرم نرم گوشت۔ موٹاپے کے بارے گوشت
 کا پھیل کرنا۔
 تھل تھلی۔ (تھل تھلی) (۱) صفت) تھل تھلی کی تائینٹ۔
 تھل تھلنا۔ (تھل تھلنا) (۱) صفت) ہلنا۔ تھل تھلنا۔ لرزنا۔ کا پھینا۔
 تھلی۔ (تھلی) (۱) صفت) ریگستان کی زمین۔
 تھلیا۔ (تھلی) (۱) صفت) چھوٹی تھالی۔ تشری۔
 تھلیاں (دھرننا) رکھنا۔ (تھلیاں) (۱) صفت) دھرننا۔ رکھنا۔ (۱) صفت) دانت
 تنہے سے پہلے ہنوں کے سوڑھوں کا پھوٹنا۔
 تھم۔ (۱) صفت) (۱) کم۔ ستون۔ کھپا (۲) درخت خصوصاً کپلے کے درخت کا
 تنا (۳) ایک مٹھائی بشکل ستون، جو ہندو عورتیں بتوں کو چڑھاتی ہیں۔
 (۲) دھک۔ اڑا۔ اٹکاؤ۔ مزاحمت (۵) تھمنا کا امر۔
 تھم توہسی۔ (۱) متقولہ) ذرا تو تھم۔ ایسی کی جلدی ہے۔
 تھم ہو جانا۔ (۱) محاورہ) پاؤں کا بہت سوج جانا۔
 تھما دینا۔ تھمانا۔ (تھما۔ دے۔ نا)۔ (تھما۔ مانا) (۱) صفت) پکڑا دینا۔
 تھالے کر دینا۔
 تھما رہنا۔ (۱) صفت) قائم رہنا۔
 تھمرا۔ (تھمرا) (۱) صفت) (۱) موٹا۔ (۲) دیز (۳) فریب۔ (۴) جیم (۵) ستون کی
 شکل کا نشان۔
 تھمنا۔ (۱) صفت) (۱) رگنا (۲) ٹھہرنا۔ (۳) وقف کرنا (۴) چپ ہو جانا۔
 تھن۔ (۱) صفت) (۱) گائے بھینس۔ بکری وغیرہ کے پستان۔
 تھن تھلے کا دودھ۔ (۱) صفت) (۱) تازہ دودھ ہوا دودھ۔
 تھن (تھن) (۱) صفت) (۱) بچہ، جس نے دودھ پینا قبل از وقت
 چھوڑ دیا ہو۔
 تھن دار۔ (۱) صفت) (۱) مذہبہ جالوز جس کا تھن ہو۔
 تھننا۔ (تھننا) (۱) صفت) (۱) دھوکا دینا۔

تھنڈا کالا۔ (۱) صفت) (۱) سردی کا موسم۔
 تھنی۔ (تھنی) (۱) صفت) (۱) گھوڑوں کی ایک بیماری۔
 تھنیلا۔ (تھنیلا) (۱) صفت) (۱) سوجن جو ضرب یا بیماری سے عورتوں کے
 پستان میں ہو جاتی ہے (۲) سوجے ہوئے پستان۔
 تھو۔ (تھو) (۱) صفت) (۱) ٹھوکنے کی آواز (۲) تھف۔ لعنت۔
 تھو تھو۔ (۱) صفت) (۱) بار بار تھوکنے کی آواز (۲) کلمہ نغزین تھف۔
 لعنت (۳) فوج۔ خدا نہ کرے۔ خدا نہ چائے۔
 تھو تھو کھدا۔ (۱) صفت) (۱) جب کوئی بچہ مارنے لگتا ہے۔ تو مڈر کے طور پر
 تھو تھو کرنا۔ یعنی ابھی نہیں ہے۔
 تھو تھو کرنا۔ (۱) محاورہ) (۱) تھو تھو کرنا (۲) نفرت سے تھو تھو کی آواز دینا۔
 تھو تھو کرنا (۳) نفرت کرنا (۴) کراہت ظاہر کرنا۔
 تھو تھو دیا۔ (۱) صفت) (۱) عورتیں بیٹھے کو دبا ہوتی ہیں اور اس کا ذکر کرنے سے
 تھو تھو کہہ دیتی ہیں۔
 تھو تھو ہونا۔ (۱) صفت) (۱) بدنامی ہونا۔ رسوائی۔ بے عزتی ہونا۔
 تھو تھو۔ (تھو تھو) (۱) صفت) (۱) گلی مٹی کا ٹوڈہ۔ ڈھیر۔ انبار (۲) مٹی کا ڈھیلنا۔
 (۳) مٹی کی بڑی۔ جو عدد پر بناتے ہیں۔
 تھو تھو بڑا۔ (تھو تھو بڑا) (۱) صفت) (۱) مذہبہ۔ تھو تھنی۔ تو بڑا۔
 تھو تھو بڑا رکھنا۔ (۱) محاورہ) تو بڑا چرھائے رکھنا۔
 تھو تھو بڑا سچا۔ (۱) محاورہ) منہ سچا۔ روٹھنا۔ خفا ہونا۔ بڑا ماننا۔
 تھو تھو۔ (۱) صفت) (۱) کوئی چیز جو دوسری چیز کے ڈھکنے کے لیے استعمال
 ہو (۲) ٹوپ۔ ٹوپی (۳) چھڑی کا دستہ (۴) تھپتھپ۔ تھاب (۵) جڑنا۔
 تھو تھو تھاب دینا۔ (۱) محاورہ) رخی دینا کر دینا۔ دبا دینا۔ مٹا دینا۔
 تھو تھو تھاب کرنا۔ (۱) صفت) (۱) جلدی جلدی اور خراب طور پر مرت
 کر کے یا بنا کر دینا۔
 تھو تھو دینا۔ (۱) محاورہ) سر نہ ڈھنا۔ الزام لگانا دینا۔
 تھو تھو پینا۔ (تھو تھو پینا) (۱) صفت) (۱) ڈھیر لگانا دینا۔ انبار لگانا۔ اکٹھا کرنا (۲)
 کسی کے ذمہ ڈالنا (۳) کسی کا رسمی چیز کی موٹی تہ لگانا (۴) گنواروں کی طرح
 تو سے پر روٹی ڈال کر پکانا (۵) کوئی چیز جلدی جلدی خراب بنا کر دینا (۶)
 اُلٹے تھابنا (۷) الزام لگانا۔
 تھو تھو تھو۔ (تھو تھو تھو) (۱) صفت) (۱) گھن لگا ہوا اناج۔ کھوکھلا اناج۔
 تھو تھو تھو۔ (تھو تھو تھو) (۱) صفت) (۱) تھو تھو۔ (۲) صفت) (۱) جس
 کی دھار کاٹ نہ کرے (۲) ملا دلا۔ (۳) گھس جوا۔ پکانا (۴) بے
 دانت (۵) کھوکھلا۔ اندر سے کھایا ہوا گھن لگا ہوا۔
 تھو تھو تھنی۔ (تھو تھنی) (۱) صفت) (۱) تھو تھنی۔ (۲) صفت) (۱) گھوڑے یا
 اونٹ کا منہ۔
 تھو تھو۔ (۱) صفت) (۱) گھوڑے۔ اونٹ وغیرہ کی ناک یا منہ۔
 (۲) سوار کا منہ (۳) تختی (۴) آدمی کا منہ یا چہرہ (۵) کھوکھلا پن۔ تھو تھو پان
 (۶) غار۔ گڑھا۔
 تھو تھو تھو۔ (تھو تھو تھو) (۱) صفت) (۱) گرم خوردہ۔ گھن لگا ہوا۔ اندر سے خالی۔
 (۲) گند۔ بلا نوک (۳) بلا دانت (۴) بے منی۔ لغو۔ بے کار (۵) دم گنا

سانب (۶) ایک دو۔ جسے نیلا تھوٹھا بھی کہتے ہیں۔
 تھوٹھا چٹنا۔ باجے کھنا۔ [مثل] کینہ آدمی بہت سنجی مارتا ہے۔
 تھوٹھے پھوڑنا۔ (۱) محاورہ) بے فائدہ باتیں کرنا۔ تھوٹے قول و قرار کرنا
 بے فائدہ کام کرنا۔
 تھوٹھے تیروں سے اُڑانا۔ (۱) محاورہ) گند تیروں کی بارش کرنا۔ سخت
 سزا دینا۔ بہت صدمے پہنچانا۔ ہنسات تکلیف سے کسی کو باز نہ
 تھوٹھرا۔ (تھو۔ تھڑا) ۱۔ اندھا ہوا اور گمانہ یا تھوٹھنی (۲) (تھوٹھا) آدمی
 کا منہ چہرہ۔
 تھوٹھرا سچائے رہنا۔ (۱) محاورہ) خیار رہنا۔ منہ پھیلانے رہنا۔
 تھوٹھلا۔ (تھو۔ تھڑا) ۱۔ (۱) صفت] گند۔
 تھوٹھنی۔ (تھو۔ تھنی) ۱۔ (۱) [مث] (۱) جانور کا منہ (۲) (تھارت سے) انسان کا منہ۔
 تھوٹھنی (پھیلانا) سچانا۔ (۱) محاورہ) منہ سچانا۔ ناراض ہونا۔ بخفا ہونا۔
 تھوٹھی۔ (تھو۔ تھنی) ۱۔ (۱) صفت] (۱) تھوٹھنی کی تائینٹ۔ اندر سے خالی۔
 تھوٹھی (۲) بہل۔ بے کار۔ لغو۔
 تھوٹھی اُڑانا۔ (۱) محاورہ) حال بتانا۔ بھوٹی ٹھیر میں پھیلانا۔
 تھوٹھی بات۔ (۱) محاورہ) بے معنی اور لغو بات۔
 تھوٹھا تھوٹھرا ہونا۔ (۱) [مص] زار زار رونا۔
 تھوٹھا۔ (تھو۔ تھڑا) ۱۔ (۱) صفت] (۱) مخمف۔ ناکافی (۲) قدرے۔ قلیل۔
 تھوٹھا آب کو بہت تھیر کو۔ [مثل] اس کے متعلق کہتے ہیں۔ جو ابڑوں
 کو کم دے اور غیروں کو زیادہ۔
 تھوٹھا بہت۔ (۱) صفت] کم و بیش۔ کسی قدر۔ کچھ۔
 تھوٹھا تھوٹھا۔ (۱) صفت] بہت ذرا سا۔ ذرا ذرا۔ کم کم۔
 تھوٹھا تھوٹھا کر کے۔ آہستہ آہستہ۔ رفتہ رفتہ۔ ذرا ذرا کر کے۔
 تھوٹھا تھوٹھا ہونا۔ (۱) محاورہ) مخمف ہونا۔ شرمندہ ہونا۔ نام نہونہ۔
 تھوٹھا تھوٹھا ہی کر کے بہت ہو جاتا ہے۔ (۱) متقولہ قطرے قطرے
 سے دریا بن جاتا ہے۔
 تھوٹھا (جاننا) سمجھنا۔ (۱) محاورہ) کم سمجھنا۔ بے وقعت سمجھنا۔
 تھوٹھا دینا بہت آرزو کرنا۔ (۱) محاورہ) معمولی کام پر بہت ملے کی امید کرنا۔
 تھوٹھاتا۔ (۱) صفت] ذرا سا۔ ہنایت قلیل۔
 تھوٹھا کرنا۔ (مص) کم کرنا۔ گھٹانا۔
 تھوٹھا کریں غازی میاں۔ بہت کریں ڈھالی۔ [مثل] تعریفیں کرنے
 والے زیادہ شہرت دیتے ہیں۔ خوشامدی تھوٹھی تعریفیں کرتے ہیں۔
 تھوٹھا کھانا بنا رس میں رہنا۔ [مثل] (۱) گھر کی آدھی۔ باہر کی ساری
 سے بہتر ہے۔ وطن کو تھوٹھی۔ عزیز الوطن کی بہت سے اچھی ہے۔
 تھوٹھا کھانا جوالی کی موت۔ [مثل] جو ان آدمی تھوٹھا کھانے تو کمزور
 ہو جاتا ہے۔
 تھوٹھا کھانا کھنی رہنا۔ [مثل] تھوٹھا کھانے سے آدمی تندرست رہتا ہے۔
 تھوٹھا کھانا عزت سے رہنا۔ [مثل] پینو شخص کی کوئی عزت نہیں
 کرتا۔ اس شخص کو کہا جاتا ہے۔ جو کھانے پر بہت خرچ کرے۔
 تھوٹھا کھانا بہت جاننا۔ (۱) محاورہ) تھوٹھے نکلے کو بہت جاننا۔
 نط کے اخیر میں اس وقت گھٹتے ہیں۔ جب کسی آدمی کو کوئی کام کرنے

کے لئے تاکید کی جائے۔
 تھوٹھا ہی۔ ہرگز نہیں۔ کبھی نہیں۔ بالکل نہیں۔
 تھوٹھا لہے۔ (۱) [مث] (۱) (۱) استہمامیہ) کم نہیں۔ کافی ہے۔
 تھوٹھے پانی کا بلبل (بلبل)۔ (۱) محاورہ) کم طرف۔ کم حوصلہ۔ ادھیسا۔
 تھوٹھے پانی میں ابھرے پھرتے ہیں۔ [مثل] ذرا سی بات پر
 اترتے ہیں۔ کم طرف ہیں۔
 تھوٹھے تیزاب سے یہ گلٹ اتر سکتا ہے۔ [مثل] ذرا سی سختی
 سے اصل حال معلوم ہو جائے گا۔
 تھوٹھے دنوں سے۔ (۱) محاورہ) کچھ عرصے سے۔ حال میں چند روز سے۔
 تھوٹھے دھن میں گل اترائے۔ [مثل] تھوٹھا سا روپیہ مل جانے
 پر بے وقوف آدمی غرور کرنے لگتا ہے۔
 تھوٹھی۔ (تھو۔ تھی) ۱۔ (۱) صفت] کم۔ ذلیل۔
 تھوٹھی اس ہداری۔ بہت اس گلگلوں کی۔ [مثل] شاہ مدار مکھن پوٹ
 کے مزار پر شہرینی تقسیم ہوتی ہے۔ طلب یہ ہے کہ پیروں کی قبروں پر
 چاہے کام ہوسکے کی امید کم ہو مٹھانی ملنے کی امید پر گئی آدمی جاتے ہیں۔
 تھوٹھی بوجی مسمول کھائے۔ [مثل] تھوٹھے روپے سے بیوپار
 کرنے میں کھانا رہتا ہے۔
 تھوٹھی سی۔ ذرا سی۔ کسی قدر۔ مختصر۔
 تھوٹھی سی پھیلا ہری سی مٹھیا۔ [مثل] ہندوؤں میں پھیلا یا گائے
 کو مانا جاتا ہے پت پت جاتا ہے۔ پھیلا تو ذرا سی ماری مگر پاپ بڑا مول
 ہے لیا۔
 تھوٹھی سی رہ گئی ہے۔ (۱) محاورہ) عمر کا بڑھتا گزر چکا ہے۔ کم باقی ہے۔
 تھوک (۱)۔ (۱) [مث] (۱) کثرت۔ افراط۔ بہتات (۲) ڈھیر۔ انبار (۳) جماعت
 جتنا۔ گروہ (۴) اکٹھا۔ یکجہت (۵) نقدی۔ جمع۔ روکڑ (۶) میزبان۔
 (۷) صحت۔ بخیر۔ تقسیم (۸) پتھر۔ سندن۔ قلعہ۔ حکمت (۹) آبادی۔ بڑھتا
 جس میں کئی بستیاں ہوں (۱۰) وہ جگہ جہاں تین سے زیادہ مرد
 ملیں (۱۱) وہ دھات کا خول جو پیس پانکلی وغیرہ کے ڈنڈوں
 پر لگاتے ہیں۔
 تھوک بانڈھنا۔ (۱) محاورہ) (۱) جماعت یا پارٹی بنانا (۲) حصوں میں
 تقسیم کرنا (۳) زمین کی حد بندی کرنا۔
 تھوک بست۔ (۱) [مث] (۱) پچانش کر کے حد بانڈھنا۔ حد بندی۔
 تھوک ہندی۔ (۱) [مث] (۱) اقرار نامہ جو گاؤں کے برابر تقسیم کرنے پر
 لکھا جاتا ہے۔
 تھوک دار۔ (۱) [مث] (۱) سرکردہ۔ سردار (۲) پتے دار (۳) اکٹھا
 بیچنے والا سوداگر۔
 تھوک فروشی۔ (۱) [مث] (۱) اکٹھا مال بیچنے والا۔
 تھوک فروشی۔ (۱) [مث] (۱) اکٹھا مال بیچنا۔
 تھوک قیمت۔ اکٹھے مال کی قیمت۔ جو کچھ مال کی قیمت سے کم ہوتی ہے
 تھوک (۱)۔ (۱) [مث] (۱) پانی جو نمٹنے سے نکلتا ہے۔ لعاب دہن۔
 تھوک اچھا لگنا۔ (۱) محاورہ) ناحق محبت کرنا۔ بکواس کرنا۔ بیہودہ بکنا۔

تھوک (۱) - محاورہ (۱) عضول بائیں کرنا۔ بیہودہ کہنا۔ بے فائدہ باتیں کرنا۔
 تھوک ترے جہنم میں۔ (۱) - مثل (۱) ادنیٰ آدمی کو شدید غصے میں الزام
 دینے کے لیے بولنے لگتے ہیں۔
 تھوک داڑھی لٹھے منہ۔ (مثل) لعنت ہے۔ نفرین ہے۔ تمہارے
 منہ پر لعنت پڑ کرنا ہوں۔
 تھوک (دینا) ڈالنا۔ (۱) - محاورہ (۱) - منہ سے تھوک زور سے پھینکنا (۲)
 چھوڑ دینا۔ نفرت سے ترک کرنا۔ عاق کر دینا (۳) - معاف کر دینا۔
 تھوک سے تیل بننا۔ (۱) - محاورہ (۱) تھوڑے خرچ سے بڑا کام نکالنا۔
 تھوک کر چھوڑنا۔ (۱) - محاورہ (۱) ذلیل کر کے چھوڑنا۔ بے عزت کر کے چھوڑنا۔
 تھوک (کر) کے ساتھ۔ (۱) - محاورہ (۱) اقرار سے پھر جانا۔ وعدہ کر کے فرجانا
 کوئی چیز دے کر واپس لے لینا۔
 تھوک سے سٹو ہونا۔ (۱) - محاورہ (۱) کچا یا کھما کام کرنا۔ بودی یا ناپائدار
 چیز بنانا۔
 تھوک لگا کر چھوڑنا۔ (۱) - محاورہ (۱) ذلیل کرنا۔ بے عزت کرنا (۳)
 نقصان پہنچانا۔
 تھوک لگا کر رکھنا۔ (۱) - محاورہ (۱) بڑی حفاظت سے رکھنا (۲) بڑی
 پروا رکھنی ہے۔ جمع کرنا۔ جوڑ جوڑ کر رکھنا۔
 تھوک لگانا۔ (۱) - محاورہ (۱) نواب دین لگانا (۲) بیچا دکھانا۔ ذلیل
 کرنا (۳) ہر دینا۔ مات دینا۔ فریب دینا۔
 تھوک لکنا۔ (۱) - محاورہ (۱) دھوکا کھانا۔ فریب میں آجانا۔
 تھوک پٹھا کرنا۔ (۱) - محاورہ (۱) تھوڑی سی بیٹی چیز کھانا۔ منہ میٹھا کرنا
 (۲) بیٹی بھگتیاں بنانا۔ بھوئی باتیں لانا۔
 تھوک میں پلوڑے نہیں تلے جاتے۔ (۱) - مثل (۱) کام مفت سے
 نہیں ہوسکتا۔
 تھوک میں ستون نہیں سنتے۔ تھوکوں ستون نہیں سنتے۔ (مثل)
 جو تھوڑے خرچ سے بڑا کام نہیں ہوسکتا۔
 تھوک ہے۔ - لف ہے۔ - نفرین ہے۔ لعنت ہے۔

تھوکنا۔ (تھوک) نا۔ (۱) - مع (۱) نواب دین پھینکنا تھوک نکالنا۔
 (۲) حقارت سے دیکھنا۔ ذلیل سمجھنا (۳) لعنت طاعت کرنا۔
 تھوکوں بھی نہیں۔ (۱) - مقولہ (۱) مجھے اس سے سخت نفرت ہے میں اسے
 دیکھنا بھی نہیں چاہتا۔
 تھول۔ (ق) - مع (۱) گدہ۔ غلط۔
 تھولی۔ (تھولی) (۱) - مع (۱) میٹھا دلیا۔ دلیا۔
 تھولے۔ (ق) - مع (۱) مزہ نہیں۔ جوڑیں۔
 تھوئی۔ (تھوئی) (۱) - مع (۱) مٹھا۔ مٹھ۔ کم۔ ستون (۲) وہ کڑھی جو
 چھتر یا چھت کے نیچے بہا را دینے کے لیے لگاتے ہیں۔
 تھوہر۔ (تھوہر) (۱) - مع (۱) مٹھا ایک خاردار زہر پل پودا جس کے پتے سبز
 اور پھول رنگ برنگ ہوتے ہیں۔ زقوم۔
 تھئی۔ (تھئی) (۱) - مع (۱) اوپر تلے رکھی ہوئی روٹیوں یا پانوں کا

ت

تھی۔ (ت) - (۱) - مع (۱) مٹھا (۲) چھوٹا تو (۲) چوڑی کڑھائی جس میں شامی
 کباب ڈبڑھتے ہیں۔
 تھی کی تیری کھڑی کی میری۔ (مثل) انتہائی خود غرضی ظاہر کرنے
 کو کہتے ہیں۔
 تھیں۔ (ت) - (۱) - مع (۱) آپ کو۔ خود کو (۲) کو۔ لیے۔ واسطے۔

تھی۔ (ت) - (۱) - مع (۱) مٹھا (۲) چھوٹا تو (۲) چوڑی کڑھائی جس میں شامی
 کباب ڈبڑھتے ہیں۔
 تھی کی تیری کھڑی کی میری۔ (مثل) انتہائی خود غرضی ظاہر کرنے
 کو کہتے ہیں۔
 تھیں۔ (ت) - (۱) - مع (۱) آپ کو۔ خود کو (۲) کو۔ لیے۔ واسطے۔

ت

تھی۔ (ت) - (۱) - مع (۱) مٹھا (۲) چھوٹا تو (۲) چوڑی کڑھائی جس میں شامی
 کباب ڈبڑھتے ہیں۔
 تھی کی تیری کھڑی کی میری۔ (مثل) انتہائی خود غرضی ظاہر کرنے
 کو کہتے ہیں۔
 تھیں۔ (ت) - (۱) - مع (۱) آپ کو۔ خود کو (۲) کو۔ لیے۔ واسطے۔

تھی۔ (ت) - (۱) - مع (۱) مٹھا (۲) چھوٹا تو (۲) چوڑی کڑھائی جس میں شامی
 کباب ڈبڑھتے ہیں۔
 تھی کی تیری کھڑی کی میری۔ (مثل) انتہائی خود غرضی ظاہر کرنے
 کو کہتے ہیں۔
 تھیں۔ (ت) - (۱) - مع (۱) آپ کو۔ خود کو (۲) کو۔ لیے۔ واسطے۔

ہندکوں کے خیال کے مطابق تیسرا بیٹا مسعود اور تیسری بیٹی مخوس ہوتی ہے۔
تیسری - (تبت۔ ری) (۱-۵) [مث] (۱) تیسرے کی تائینت (۲) ایک خوب صورت
 ہمدردوں والا کیڑا۔ جینیری۔ ستی (۳) خوش پوشک شوخین عورت۔
تین - (تی۔ نی) (تی۔ ف) (۱-۵) [مث] آواز جس سے مرغیوں کو بلاتے ہیں۔
تینیس - تینیس (تے۔ تیس)۔ تیس (تیس)۔ تیس (تیس)۔ تیس (تیس)۔ تیس (تیس)۔

تیسری - (تے۔ ٹو۔ ری) (ق۔ ۱-۵) [مث] ایک برندے کا نام۔
تیج - (۱-۵) [مث] (۱) گلاوہٹ۔ تلخی (۲) جوش۔ سرگرمی۔ کھیلا۔ گروہ۔ جو صمد۔
 (۳) بہت۔ طاقت۔ قوت۔ بل۔ زور (۴) گرم جوشی۔ اشتیاق۔ لگن۔
 (۵) عنصر۔ غضب (۶) شان۔ شوکت۔ جاہ و جلال۔ ٹھاٹھ (۷) رعب۔
 ڈر خوف (۸) ایک درخت۔

تیج - (تیج) (۱-۵) [مث] (۱) جیسے کی تیسری تاریخ (۲) ایک ہمدرد ہوا۔ جو
 سادوں سدی تیج کو ہوتا ہے۔
تیج پڑے - (مث) سادوں کی تیسری تاریخ کو فضل کی
 کاشت شروع ہو جاتی ہے۔

تیج تہوار - (تی۔ جا) (۱-۵) [مث] (۱) تیسرا (۲) مسلمانوں میں مرنے کے بعد تیسرا
 دن۔ فاتحہ سوم۔

تیج پات - (تیج۔ پات) (۱-۵) [مث] ایک خوشبودار پتہ۔
تیج پانا - (تیج۔ نا) (۱-۵) [مث] چھوڑنا۔ تھنا۔ تباہ کرنا۔
تیجی - (تی۔ جی) (۱-۵) [مث] (۱) تیز۔ شوخ۔ تیتا مریج (۲)
 خام پارہ (۳) زبان دراز۔ بے جا عورت۔ فتنہ برداز۔

تیر - (ت۔ ۱-۵) [مث] (۱) ٹکڑی کا پتلا۔ سیدھا اور لہلا گھڑا۔ ایک قسم کا جنگی ہتھیار
 جو کمان میں رکھ کر چلایا جاتا ہے۔ خدنگ۔ ناڈک۔ بان (۲) ایرانیوں کا
 پوتھا ہیندہ جو سادوں کے مقابلے پر ہے (۳) تیج کا دو تار (۴) پتنگ کا گڑ۔
 (۵) شہیر ہستول (۶) عطار۔ دیر فلک (۷) طعن و تشنیع (۸) ہر شئی
 جیسے کا تیر حوالا دن۔

تیر آہ - (ت۔ ۱-۵) [مث] ٹھنڈی سانس۔
تیر ادا - (ت۔ ۱-۵) [مث] ناز و انداز۔ وجود پر اثر کرے۔
تیر کرنا - (۱-۵) [مث] ہوا میں تیر کا جانا۔
تیر افکن - (ت۔ ۱-۵) [مث] تیر چلانے والا۔
تیر اگنی - (ت۔ ۱-۵) [مث] تیر چلانے کا فن۔ تیر مارنا۔
تیر انداز - (ت۔ ۱-۵) [مث] تیر چلانے والا سپاہی۔ تیر چلانے کا ماہر۔ قدر انداز
 کمان دار۔

تیر اندازی - (ت۔ ۱-۵) [مث] تیر چلانے کا فن۔ ناڈک۔ اگنی۔ کمان داری تیر چلانا
تیر باران - (ت۔ ۱-۵) [مث] (۱) تیر چلنے کی کثرت۔ تیروں کا ہیندہ (۲) ایک
 مسزاجس میں طزم کو تیروں سے مراد یا جاتا تھا۔
تیر برسانا - (۱-۵) [مث] بہت سے تیر چلانا۔

تیر بلا - (ت۔ ۱-۵) [مث] سخت مصیبت لانے والا تیر۔
تیر بن کر کھینے میں اترنا - (۱-۵) [مث] سخت رنج یا انداز دینا۔

تیار یا بنی کرنا - (۱-۵) [مث] (۱) ہاشٹا تقسیم کرنا۔ جیسے بخرے کرنا (۲) کھیر
 پاک کرنا۔ جھگڑا پکنا (۳) بیچ ڈالنا۔ کوڑے کر ڈالنا۔
تیار - (تی۔ یار) [مث] (۱) مستعد۔ موجود۔ آمادہ (۲) پورا۔ مکمل (۳)
 موٹا تازہ (۴) قابل استعمال (۵) پکا ہوا۔ پختہ (۶) پورے زوروں پر
 جوان (۷) آراستہ۔

تیار کرنا - (۱-۵) [مث] (۱) آمادہ کرنا (۲) درست کرنا۔ لیس کرنا (۳) بہم
 پہنچانا (۴) کھانا پکنا (۵) بلانا۔ سدھارنا (۶) موٹا کرنا۔ فزیکرنا (۷)
 پہنوان کو کسرت اور خوراک سے طاقت و زور اور لڑنے کے قابل بنانا۔
 (۸) گاڑی جو تیار کھوڑے پر زمین رکھنا۔

تیار ہونا - (۱-۵) [مث] (۱) آمادہ ہونا (۲) موٹا تازہ ہونا (۳) مکمل ہو جانا
 یا بن جانا۔ عمارت کا ختم ہو جانا (۴) یک جانا۔

تیار سازی - (تی۔ یار۔ ری) (ت۔ ۱-۵) [مث] (۱) آمادگی۔ مستعدی (۲) درستی (۳)
 آرائش۔ آرائشی (۴) سامان کی درستی (۵) مثابا۔ فزہی (۶) انتظام۔

تیار سازی کا رنگ روشن - (۱-۵) [مث] (۱) روشن یا رنگ جو گاڑی وغیرہ
 کے درست ہو جانے پر چمک دکھ کے لیے کرتے ہیں۔

تیار سازی کرنا - (۱-۵) [مث] (۱) سامان کرنا۔ لیس ہونا (۲) کسی کی اوجھٹ
 کا انتظام کرنا۔ کوئی کام کرنے کے لیے سامان مہیا کرنا۔

تیاگ - (ت۔ یاک) (۱-۵) [مث] چھوڑنا۔ ہاتھ اٹھانا۔ کنارہ کش ہونا۔

تیاگ تیر - (۱-۵) [مث] طلاق نامہ۔
تیاگ کرنا - (ت۔ یاک) (۱-۵) [مث] چھوڑنا۔ دست بردار ہونا۔ دست کش ہونا۔

تیاگن - (ت۔ یاک۔ گن) (۱-۵) [مث] تیاگ کی تائینت۔
تیاگ کرنا - (ت۔ یاک۔ نا) (۱-۵) [مث] چھوڑنا۔ ترک کرنا۔

تیاگی - (ت۔ یاک۔ گی) (۱-۵) [مث] (۱) چھوڑنے والا۔ ترک کرنے والا (۲) وہ
 شخص جو مذہبی وجوہ سے دنیا چھوڑ دے (۳) سادھو۔ جوگی۔

تیاگی - (تیب۔ جی) (۱-۵) [مث] کچی سیون۔ کھڑی سلائی۔
تیاگی بھرنا - کچی سیون کرنا۔

تیاگی کا نکاح - (۱-۵) [مث] نکاح۔ نکاح جس کے بعد جلد طلاق ہو جائے۔
تیاگی لیس تینت لیس - (تے۔ تا۔ لیس)۔ (تیس۔ تا۔ لیس) (۱-۵) [مث]

تین اور چالیس تیل و سہ۔
تیترا - (تی۔ تے) (۱-۵) [مث] ایک قسم کا پرندہ جسے اکثر شوخین لڑانے کے لیے
 پالتے ہیں اور کھانے میں بھی آتا ہے۔ ڈراچ۔ تیترو۔

تیترا تواری - (تی۔ تے) (۱-۵) [مث] (۱) ایک تواریوں مرے بلبر۔ (مث) ایک تواریوں خطا کی
 سزا پانے۔ دوسرے کیوں رنج کر کے مر جاتے۔

تیترا کے منہ لچھی - (مث) بعض وقت معمولی آدمیوں کی باتوں پر بڑے
 بڑے کاموں کا انحصار ہوتا ہے (۲) تیترا کی آواز سے چونکہ مال لاکھ
 لگنے کا شگون لیتے ہیں۔ اس لئے قسمت آزمائی کے موقع پر بھی اس
 کا استعمال ہوتا ہے۔

تیترا - (تبت۔ را) (۱-۵) [مث] تیسرا۔
تیترا بیا راج رجا گئے - تیترا بیٹی لچھی منگائے۔ (مث)

تیر بہدف - (ف صفت) (۱) عین نشانے پر ٹھیک جگہ پر بے خطا۔
 (۲) سرتن الت تیر۔
 تیر بہدف ہونا - (۱) محاورہ (۲) تیر کا نشانے پر لگنا (۲) تدبیر کا
 اثر ہونا (۳) دعا کا قبول ہونا (۴) مطلب کا خاطر خواہ پورا ہونا۔
 تیر بہک جانا - (۱) محاورہ تیر کا نشانے پر نہ لگنا۔ ادھر ادھر نکل جانا۔
 تیر بیٹھ جانا، بیٹھنا - (۱) محاورہ تیر کا نشانے پر جا لگنا۔
 تیر بار ہونا - (۱) محاورہ تیر کا نشانے تو گزر کر گزر جانا۔
 تیر پڑتا ب - (ف صفت) (۱) مذ وہ فاصلہ جو تیر طے کرے۔
 تیر پڑنا - (۱) محاورہ تیر نشانے پر لگنا۔
 تیر پھینچ جانا - (۱) محاورہ تیر پھینچ جانا۔
 تیر پھینکنا - (۱) محاورہ تیر چلانا۔ بان مارنا۔
 تیر تانک کر مارنا - (۱) محاورہ نشانے لے کر مارنا۔
 تیر ترازو ہونا - (۱) محاورہ تیر کا نصف اندر نصف باہر ہونا۔
 تیر کٹلم - (کنایت) مظلوم کی آہ۔
 تیر کٹنگ - (ف صفت) (۱) مذ کٹنگ کا چھرا۔
 تیر کٹوں پر گزرا (گزران) ہونا - (۱) محاورہ باقاعدہ روزگار نہ
 ہونا۔ مشکل سے گزر ہونا۔ در بدر پھر کر گزر ہونا۔
 تیر جوڑنا - (۱) محاورہ تیر کمان میں چلانے کے لیے لگانا۔
 تیر چلانا۔ تیر چھوڑنا - (۱) محاورہ (۱) تیر چھوڑنا۔ تیر پھینکنا۔ تیر اندازی
 کرنا۔ تیر نشانے پر مارنا (۲) کار بظلم کرنا۔
 تیر چلنا۔ تیر چھوڑنا - (۱) محاورہ تیر کمان سے نکلنا۔ تیر اندازی ہونا۔
 تیر چھٹی - (ف صفت) (۱) مذ وہ تیر جو نشانے خزانہ کرے۔ شرطہ تیر دعوے
 کا نشانہ۔
 تیر خاکی - (ف صفت) (۱) مذ ایک تیر ہلکا چھوٹے سرے کا۔
 تیر خدنگ - (ف صفت) (۱) مذ درخت خدنگ کا بنا ہوا تیر۔
 تیر خوردہ - (ف صفت) (۱) تیر لگا بجا۔ تیر کا زخمی (۲) بجاڑا عاشق۔
 تیر دان - (ف صفت) (۱) مذ ترش۔
 تیر دما - تیر کا دعا سے استعارہ کرتے ہیں۔
 تیر دعا بدف مڑا پر پھینچنا - (۱) محاورہ دعا قبول ہونا۔
 تیر دو پہلو - وہ تیر جس کے دونوں پہلو ہوں۔
 تیر گوب جانا - (۱) محاورہ تیر کا نشانے میں گھسنا۔
 تیر گوب گئے رہ جانا - (۱) محاورہ تیر کا نشانے میں گھس کے رہ
 جانا یا باہر نہ نکلنا۔
 تیر گس - (ف صفت) (۱) مذ وہ فاصلہ جہاں تک تیر جائے۔ تیر کی مار۔
 تیر گرا کرنا - (۱) محاورہ تیر چلانا۔ تیر کمان سے چھوڑنا۔
 تیر زرن - (ف صفت) تیر چلانے والا۔
 تیر زنی - (ف صفت) (۱) مذ تیر اندازی۔
 تیر سار تیر کی طرح سیدھا۔
 تیر سا لگنا - (۱) محاورہ (۱) تیر کی طرح چھیننا (۲) کسی بات کا سخت برا لگنا۔
 تیر سحر - (ف صفت) (۱) مذ (۱) صبح کی آہ (۲) بددعا (۳) صبح کا ذب کی فرشتی۔
 تیر سہ پہلو - (ف صفت) (۱) مذ وہ تیر جس کے تین پہلو ہوں۔

تیر عشق سینے کے بار ہونا - (۱) محاورہ عاشق ہونا۔
 تیر کلم - (ف صفت) (۱) مذ تیر کا نظم سے استعارہ کرتے ہیں۔
 تیر فلک - (ف صفت) (۱) مذ عطار د۔ بدھ۔
 تیر کھنا - (ف صفت) (۱) مذ قصا کا حملہ موت۔
 تیر کا خطا کرنا - (۱) محاورہ تیر کا نشانے پر نہ لگنا۔ نشانہ چوگان۔
 تیر کا دستہ - (ف صفت) (۱) مذ بہت سے تیروں کا مجموعہ۔
 تیر کمان سے نکلنا - (۱) محاورہ تیر کا چلنا۔
 تیر کھانا - (۱) محاورہ تیر کا زخم کھانا۔ تیر لگنا۔
 تیر کی طرح سیدھا آنا - (۱) محاورہ بالکل سیدھا آنا۔
 تیر کی مار - (۱) مذ (۱) متناؤر ورتنا کہ تیر جاتے۔
 تیر کر - (ف صفت) تیر بنانے والا۔
 تیر گری - (ف صفت) (۱) مذ تیر بنانے کا پیشہ۔
 تیر لگانا - (۱) محاورہ تیر چلانا۔
 تیر لگنا - (۱) محاورہ تیر کا نشانے پر پھینچنا۔ نشانہ لگنا۔
 تیر مار - (ف صفت) (۱) مذ سانپ کا دانت۔ سانپ۔
 تیر مارنا - (۱) محاورہ تیر چلانا۔
 تیر مرگاں - (ف صفت) (۱) مذ مرگاں کا تیر سے استعارہ کرتے ہیں۔
 تیر ناوک - (ف صفت) (۱) مذ (۱) چھوٹا تیر (۲) تیر جو نالی سے چلایا جائے۔
 تیر نختوں میں دینا - (۱) محاورہ بہت دق کرنا۔ سخت تنگ کرنا۔
 تیر برشان کرنا۔
 تیر نگاہ - (ف صفت) (۱) مذ نگاہ کا تیر مشوق کی نگاہ کا تیر سے استعارہ کرتے ہیں۔
 تیر نگاہ کا صید بنانا - (۱) محاورہ عاشق بنا لیتا۔ کفر لغت کر لیتا۔
 تیر نہ کمان کا ہے کے پھان - (مشل) خود کچھ نہ ہونا آباؤ اجداد کے
 متعلق شیخی مارنا۔
 تیر نہ کمان - میاں کا اللہ ٹکھبان - (مشل) حفاظت کی کوئی صورت
 نہیں۔ خدای ہی بجائے۔
 تیر نہیں تگاہی سہی - (۱) مذ (۱) اعلیٰ نہیں تو ادنیٰ ہی سہی۔ اچھی چیز نہیں
 تو بری ہی سہی۔
 تیر ہدف - (ف صفت) نشانے پر بیٹھنے والا تیر۔ کامیاب تیر۔
 تیر ہدف پر بیٹھنا - (۱) محاورہ تیر نشانے پر لگنا۔
 تیر جوانی - (ف صفت) (۱) مذ تیر جو نشانے پر نہ چلایا جائے بلکہ ہوا میں
 چھوڑا جائے (۲) بے کار۔ فضول۔ بے فائدہ۔
 تیر (جو جانا) ہونا - (۱) محاورہ غائب ہو جانا۔ گم ہو جانا۔ جاگ جانا۔
 تیروں کا پھیننا - (۱) محاورہ تیروں سے زخمی ہونا۔
 تیروں کا لینہ برسانا - (۱) محاورہ بہت تیر چلانا۔ کثرت سے تیر چلانا۔
 تیرا - (تے) (۱) مذ (۱) ادنیٰ کے لیے کلمہ خطاب (۲) اس سے خدا کو بھی
 خطاب کرتے ہیں۔
 تیرا برائہ ہو - (۱) کوسنا عورتیں جب کسی عزیز سے ناراض ہوتی ہیں تو
 تیرا بڑا ہونے کی بجائے کہتی ہیں۔
 تیرا بیڑا سرق ہو - (۱) کوسنا (بددکل تو تباہ ہو جائے۔

تیرا پانی میں بھروں۔ میرا بھرے گہوار۔ (دشل) (۱) شیشی خورخار دہ
کھتی ہے (۲) دنیا میں ایک سے ایک بڑھ کر ہے۔
تیرا دارا کن میرا ناٹھ۔ (۱) دشل) تیرا دامن پکڑوں گا۔ تجھ سے لوں گا۔
تیرا دم رہے۔ (۱) دشا) تو سلامت رہے۔
تیرا دھکا رہے۔ میرا کھے۔ (دشل) انتہائی خود غرضی کے موقع پر کہتے ہیں۔
تیرا اخلو اور جنتی کھاؤں۔ (بد دشا) تو مر جائے۔
تیرا استیا ناس ہو جائے۔ (دکونا) تو تباہ ہو۔
تیرا کر سہ بھلا جاتا ہے۔ (۱) دشل) تیرا بار کھانے کو بی چاہتا ہے۔
تیرا کیا تیرے اگے آئے۔ (بد دشا) جیسا تو نے میرے ساتھ کیا ہے
دیا ہی تیرے ساتھ ہو۔
تیرا مال سو میرا مال۔ میرا مال سو ہیں میں۔ (دشل) سخت خود غرضی
کے موقع پر کہا جاتا ہے۔ جہاں کوئی دوسرے کی چیز تو استعمال کرنے لگے
اپنی چیز زدے۔
تیرا منہ کالا ہو۔ (۱) کوسنا) تجھ پر لعنت ہو۔ تو بدنام
تیرا منہ ہے۔ (۱) محاورہ) تیری وجہ سے یہ کام کر دیا (۲) تیرا حوصلہ ہے۔
تیرا میرا۔ (۱) اپنے بیگانے کا (۲) جھگڑا۔ تو تو میں میں۔
تیرا میرا کرنا۔ (۱) محاورہ) کسی چیز کی بابت جھگڑا کرنا۔ عزیزیت اور بیگانگی
کی باتیں کرنا۔
تیرا میرا منہ دیکھنا۔ (۱) محاورہ) دوسروں کا سر اڈھوٹنا۔
تیرا لورا اڑ جائے۔ (۱) کوسنا) دیکھنا) تیرا منہ کالا ہو۔ تو تباہ و برباد ہو جائے۔
تیرا پاتھ اور میرا منہ۔ (دشل) تو کرا اور میرا کھانے کا۔
تیرا کھاؤ جو میرا کھاؤ۔ برائے خدا تک یہ کھنے کو دے۔ (دشل) اس
اس ہو سے ہتی ہے، جو خداوند کو لے کر آگ ہو جائے۔
تیرا ہی کام تھا۔ (۱) دشل) (۱) تیرے سوا کسی سے نہ ہو سکتا تھا (۲) نظر آ
جھی کہتے ہیں۔
تیرے باب سے بھی گونگا۔ (۱) دشل) کبھی نہ چھوڑوں گا۔
تیرے باب کا کیا اجارہ ہے۔ (۱) محاورہ) تو کیوں دشل دیتا ہے؟
تو دشل دیتے دلا کو توں؟۔
تیرے بنائیں میری چھا چھ۔ (۱) دشل) اس شخص کے متعلق کہتے ہیں
جو خود تھوڑا دے اور دوسرے سے زیادہ مانگے۔
تیرے توڑے (چھوٹے) تو میں سیر بھی نہ کھاؤں۔ مجھے تجھ سے
بہت نفرت ہے۔
تیرے جو تیری درانتی جیسا ہے صلیے کاٹ۔ (دشل) جو رضی ہے
گر، میں دشل نہیں دیتا۔ شاید نفرت کا اظہار کرنا۔
تیرے جیسے کتابھی نہ جیئے۔ (۱) دشل) تیری زندگی سے تو کتنے کی
زندگی بھی بہتر ہے۔
تیرے چاروں راہ موکلے ہیں۔ (۱) دشل) تیرا کوئی مزاج نہیں۔
جہاں پائے چلا جا۔
تیرے دیا دھرم نہیں من میں (دشل) جس کے دل میں دم اور
مکھرا کیا دیکھے درمیں میں آرز نہیں۔ وہ انسان نہیں۔

تیرے صدقے میں۔ (۱) تمہاری طفیل۔ تمہاری وجہ سے (۲) تم پر
تصدق ہو کر۔
تیرے لیکھے۔ (دشا) تیرے حسابوں۔
تیرے منہ میں خاک۔ (دشا) عورتیں کسی کے منہ سے بُری بات یا
فانک بدمن کر سکتی ہیں۔
تیرے منہ میں کوہ دیتا ہوں۔ (۱) دشل) تجھ جھوٹا ثابت کرتا ہوں۔
تیرے منہ میں مٹی شکر۔ (دشا) خوشی کی خبر سن کر کہتے ہیں۔
تیرے صدقے میں اس کی حجاز و میٹ سے۔ (دشل)
(۱) بدچلن عورت کے متعلق کہتے ہیں (۲) ایسے نوح پر بھی کہا جاتا ہے
جب دوسرے کی محنت سے کسی کو فائدہ پہنچ جائے۔
تیرے نام کا لٹا بھی نہیں پالتا۔ (۱) دشل) انتہائی نفرت کا اظہار ہے۔
تیرے ہاتھ لوٹیں۔ (بد دشا) خود تیرا ماننے والے کو کہتی ہیں کہ جن ہاتھوں
سے تو مار رہا ہے سچ لوٹ جائیں۔
تیرے ہی تلے تو گنگا گہری ہے۔ (دشل) تو ہی تو بڑا زور آور۔
مال دار اور حکومت والا ہے۔
تیرا ک۔ (تے) راک) (۱) وہ شخص جو اچھی طرح تیرنا جانتا ہو۔
شنادور۔ پیراک۔
تیرا ک ہی ڈوبتے ہیں۔ (۱) دشل) جو آدمی کسی کام میں مہارت رکھتا
ہے۔ اسی میں جوٹ کھاتا ہے۔
تیرا کی۔ (تے) راک) (۱) دشل) تیرے کان۔ شنادوری۔
تیرا ک۔ (تے) راک) (۱) دشل) تیرے کان۔ شنادوری۔
تیرا ک۔ (تے) راک) (۱) دشل) تیرے کان۔ شنادوری۔
تیرا ک۔ (تے) راک) (۱) دشل) تیرے کان۔ شنادوری۔
تیرا ک۔ (تے) راک) (۱) دشل) تیرے کان۔ شنادوری۔
تیرا ک۔ (تے) راک) (۱) دشل) تیرے کان۔ شنادوری۔
تیرا ک۔ (تے) راک) (۱) دشل) تیرے کان۔ شنادوری۔
تیرا ک۔ (تے) راک) (۱) دشل) تیرے کان۔ شنادوری۔
تیرا ک۔ (تے) راک) (۱) دشل) تیرے کان۔ شنادوری۔
تیرا ک۔ (تے) راک) (۱) دشل) تیرے کان۔ شنادوری۔
تیرا ک۔ (تے) راک) (۱) دشل) تیرے کان۔ شنادوری۔
تیرا ک۔ (تے) راک) (۱) دشل) تیرے کان۔ شنادوری۔

تیز مزاج - (ف. صفت) تیز مغز۔ تیز عقل۔ زود رنج۔

تیز مزاجی - (ف. صفت) تیز مغز۔ تیز عقل۔

تیز ناک خون - (ف. صفت) جس کے ناکھن دھار دار ہوں۔

تیز نظر - (ف. صفت) نگاہ - (ف. صفت) جس کو دور تک نظر آئے (۲) دُور بین
باریک بین۔

تیز و تند - (ف. صفت) بہت تیز (۲) مدہوش کر دینے والی شراب۔

تیز ہوش - (ف. صفت) عقل مند۔ صاحب لیاقت۔

تیز ہونا - (ف. صفت) تیز ہونا۔ تیز ہونا۔ تیز ہونا۔ تیز ہونا۔

تیز ہونا (۳) ہنگام ہونا۔ گراں ہونا (۴) گری ہونا۔ حدت ہونا۔

تیزاب - (تے۔ زاب) - (ف. صفت) (۱) مذ۔ ایک سیال مرکب جو بدن پر لگے، تو اس کو جلا دیتا ہے اور کئی چیزوں کے رنگ کو بدل دیتا ہے۔ نہایت

ترش۔ ایسڈ (Acid)

تیزی - (تے۔ زہ) (۱) تندی (۲) گرم مزاجی۔ غضب ناک (۳) گری۔ حدت (۴) ضرورت خواہش (۵) ہنگام پن (۶) لگنے والی دوا کا

اثر (۷) دھار دار ہونا۔

تیزی کا جانند - (۱) مذ۔ صغر کے مہینے کا جانند۔

تیزی کرنا - (۱) محاورہ (۲) جلدی کرنا (۳) چالاک کرنا (۴) شوخی کرنا۔

تیزی ہونا - (۱) محاورہ (۲) جلدی ہونا (۳) ہنسنے ہونا۔ نا لاض ہونا۔

تیس - (۱) عدد (۲) دس اور بیس۔ سی۔ ۳۰۔

تیس دن - تیسوں دن - (۱) مذ۔ (۲) مہینہ (۳) گناہتہ۔ ہر روز۔ روزنہ۔

تیس دن - تمام ماہ (۳) ہمیشہ۔ مدام۔ سد۔ مت۔ دائم۔

تیس روز - (۱) مذ۔ مہینہ۔

تیس مار خال - (۱) مذ۔ طنزاً بہادر آدمی۔

تیس مار خاں بنے پھرتے ہیں - (مثل) بڑے بہادر بنے پھرتے ہیں۔ بہت اکر تے ہیں۔ بہت اکر توں دکھاتے ہیں۔

تیسوں کلام - (۱) مذ۔ قرآن شریف جس کے تیس آیت یا سے ہیں۔

تیسوں (تے۔ سا۔ دہ۔ صفت) (۱) اسی طرح کا۔ جیسے کے مقابل استعمال ہوتا ہے

اور ایسے کے ساتھ (۲) اسی طرح پر سو (۳) اس وقت۔ اس موقع پر۔

تیسرا - (۱) مذ۔ (۲) آسان ہونا (۳) آسانی۔ سہولت۔

تیسرا (تیس۔ را۔ ہ۔ صفت) (۱) دو کے بعد کا (۲) تین سے نسبت رکھنے والا۔

تیسرا (تیسوں میں ٹھیکرا - مثل) دو شخص باتیں کرتے ہوں اور تیسرا

آجائے، تو برابر معلوم ہوتا ہے۔

تیسرا آمارہ - (۱) مذ۔ (۲) جزو الکعب۔ گھن۔ مول (۳) کسی رقم کا تیسرا آمارہ

معد جس کو تین دفعہ ضرب دینے سے اصل رقم نکل آئے جیسے آٹھ

کا تیسرا آمارہ ہے۔ دو کو تین دفعہ آپس میں ضرب دو تو آٹھ آجائے گا۔

تیسرا پیر - (۱) مذ۔ دوپہر کے بعد کا پیر۔

تیسرا پیر، کو مارے گا - (مثل) اس موقع پر بولتے ہیں۔ جب کوئی بڑوں

شخص جو صلہ دلانے کے باوجود ہمت مار بیٹھے۔

تیسری - (تیس۔ ری) (۱) صفت (۲) تیسرا کی تائید (۳) تین دفعہ بل

پہل ہوئی زمین (۴) مہینے کا تیسرا دن۔

تیسری تاریخ کا جانند - (۱) مذ۔ عورتیں اسے منحوس سمجھتی ہیں۔

تیسرے - (تیس۔ رے) (۱) صفت (۲) تین کی تعداد ظاہر کرنے کو (۳) سوم۔

تیسرے دن (فاتے) مردہ بھی حلال ہے - (مثل) مسلمانوں میں

مردار حرام ہے، مگر تین دن فاتے سے ہونے کے بعد اس کے کھانے کی

اجازت ہے۔ (۲) مجبوری کی حالت میں ناروا بات بھی روا ہے۔

تیسرے فاتے سے - (۱) محاورہ (۲) تین دن کے فاتے سے۔

تیسری - (تی۔ سی) (۱) صفت (۲) تیس برس کی (۳) تیس برس

کا مہینہ۔

تیشہ - (تے۔ شہ) (ف. صفت) (۱) مذ۔ بڑھیوں کا ایک اوزار جس سے لکڑی تھوڑی

تھوڑی پھیلتے ہیں۔ بسولا۔

تیشہ زن - (ف. صفت) بسولا پھلانے والا۔

تیشہ مارنا - (۱) محاورہ (۲) بڑھی کا کام کرنا۔

تیغ - (ف. صفت) (۱) نٹ (۲) تلوار۔ تیغ۔ جمع : تیغاں تیغیا۔

تیغ آزمائی - (ف. صفت) تلوار پھلانے۔ تیغ زنی۔

تیغ ابرو - (ف. صفت) (۱) ابرو کا استعارہ۔ تیغ سے کرتے ہیں۔

تیغ ابرو کا کھال ہونا - (۱) محاورہ (۲) عاشق ہونا۔

تیغ انتقام کو نیام سے پھینچنا - (۱) محاورہ (۲) بدلہ لینے کے لیے تیار ہونا۔

تیغ بھراں - (ف. صفت) کاٹنے والی تلوار۔

تیغ بردار - (ف. صفت) جو ننگی تلوار لے کر سوار کے ساتھ چلے۔

تیغ بکھن - (ف. صفت) ہاتھ میں تلوار لیے ہوئے۔ تلوار پھلانے پر

تیغ آکادہ - (ڑنے کو تیار۔

تیغ بے پناہ - (ف. صفت) وہ تلوار جس سے بچنا ناممکن ہو۔

تیغ لے دریغ - تلوار جو فی الفور نکالی جائے۔

تیغ جو ہر دار - (ف. صفت) وہ تلوار جس میں جو ہر کے نشان ہوں۔

تیغ جھاری - (ف. صفت) بھاری تلوار۔

تیغ دو دستی (دو دو دم) - (ف. صفت) وہ تلوار جس کے دونوں طرف

دھار ہو۔ دو دھاری تلوار۔

تیغ روال - (ف. صفت) جلد کاٹنے والی تلوار۔

تیغ زبان - (ف. صفت) (۱) زبان کی تلوار (۲) طنز پر گفتگو۔ بخیدہ باتیں۔

تیغ زبان سے زخمی کرنا - (۱) محاورہ (۲) سخت یا طنز پر باتوں کو گرج دینا۔

تیغ زن - (ف. صفت) تلوار پھلانے والا۔ تیغ زن۔

تیغ زنی ہر (ف. صفت) تلوار پھلانے والا۔ تیغ زنی۔

تیغ (ساز) کر - (ف. صفت) مذ۔ تلوار بنانے والا۔

تیغ کسم - (ف. صفت) ظلم کی تلوار۔ ظلم و کسم۔

تیغ فلک - (ف. صفت) (۱) مرتج (۲) آسمان (۳) سورج کی کرنیں۔

تیغ قلم - قلم کی تیزی کو تلوار سے استعارہ کرتے ہیں۔ سپاہی کی تلوار کی

طرح اہل قلم اپنے مخالف کو قلم کے ذریعے نقصان پہنچاتے ہیں۔

تیغ را نیام راج باشد - (ف. مثل) جیسے کو تیسرا۔ جیسا آدمی ویسا

تیلوک - ویسے ہی دوست۔

تیغ کوہ - (ف. صفت) پہاڑ کی چوٹی۔

تیل سلنا۔ (ص)۔ مرکت، بولہوں میں بوج ڈال کر تیل نکالنا۔
تیل پتوں ہی میں سے نکلتا ہے۔ (شل) (۱) ہر ایک چیز کا خرچ
اس کی آمدنی ہی میں سے نکالا جاتا ہے (۲) رعایا پر جو خرچ ہوتا ہے
اسی سے وصول کیا جاتا ہے۔

تیل ملی نہ اُپر پٹی - (شل) ہنایت کنگاں۔
تیل نوا - (اص) بہت کالا۔ ایسا کالا بھے تو رے کی سیاہی تیل میں ملی ہو۔
تیل حل جلا - (اص) بڑھا ہو گیا متعین آگنی (۲) مال خرچ ہو چکا۔
تیل جلیے بھی - (شل) تیل تیز آگ پر گرم کرنے سے
اچھا ہو جاتا ہے اور بھی خراب ہو جاتا ہے۔

تیل جڑھانا - (اص) مایوں بٹھاتے وقت ہندوؤں کی ایک رسم جس
میں تھکے اور لڑکی کے سر ہاتھ پاؤں میں ہندی ملی جاتی ہے۔
تیل جڑھنا - (اص) شادی کی تیاری ہونا۔ تیل جڑھنے کی رسم ہونا۔
تیل دیکھو تیل کی دھار دیکھو - (شل) ابھی انتظار کرو۔ دیکھو کیا ہوتا ہے
تیل کی برائی اور تاثیر کی تعریف میں کہتے ہیں۔

تیل ڈال کیسی کا سا جا - (شل) ذرا سا کام کے ساری چیز کے دھیار
کیسی بن کر اُسے جگ دینے کے لیے تیل لگاتے ہیں۔

تیل ڈالنا - (اص) تیل لگانا (۲) کسی چیز میں تیل پڑھانا۔
تیل کی چلیسی تورا دور سے دکھائے - (شل) دھوکا دیتا ہے وعدہ
کر کے پورا نہیں کرتا۔

تیل لگانا - (اص) تیل لگانا۔ تیل سے چکنا کرنا۔
تیل ماس - (اص) تیل اور ماس جس سے صدقہ آتا رہتا ہے (۲)
صدقہ صدقہ۔

تیل ماش آتارنا - (اص) (اص) ایک رسم ہے۔ جب کوئی مسافر گھر واپس
آئے یا بیاری سے اُٹھے تو اس کو تیل میں ماش ڈال کر منہ دکھاتے ہیں پھر
یہ بھنگی کو دے دیتے ہیں۔

تیل ماش ہونا - (اص) (اص) صدقہ ہونا۔ قربان ہونا۔
تیل نکنا - (ص) مرکت، تیل کی ماش کرنا۔

تیل ملوانا - تیل کی ماش کرنا۔
تیل میں ہاتھ ڈالنا - (اص) (اص) اگلے زمانے میں دستور تھا کہ جب کوئی
شخص کسی بات سے منکر ہوتا تو وہ اپنی سچائی کے ثبوت میں جلتے تیل
میں ہاتھ ڈال کر کہتا کہ اگر میں سچا ہوں، تو ہاتھ نہ جلے گا اور اگر بھوٹا ہوں
تو جل جائے گا۔ چونکہ آگ کا کام جلا نا ہے۔ اس لئے اکثر چھوڑ کر مارے
اس قسم کا نام لیتے ہی اقرار کر لیا کرتے تھے (۲) (اص) آگت قسم کھانا۔
تیل نکالنا - (اص) (اص) روغن کشی کرنا۔ بیجوں کو دبا کر تیل حاصل کرنا۔
تیل پیلنا (۲) سخت محنت سے کام لینا۔ بہت کام لینا (۳) مست
نکال لینا۔

تیل (نکل جانا) نکلنا - (اص) (اص) بیجوں سے تیل حاصل ہونا (۲)
عاقبت ضائع ہونا۔ سخت کمزور ہونا (۳) دو اور نکل جانا۔

تیل نہ مٹھانی - چوھے دھری کر رکھانی - (شل) پاس کچھ نہیں
اور سخی بہت۔

تین کے گلے ملنا - (اص) (اص) تلوار کا مقابلہ کرنا۔
تین گلے گر - (ص) (اص) گلا گٹنے والی تلوار۔
تین لگانا - (اص) تلوار کا وار کرنا۔

تین محرف - (ص) (اص) غم دار تلوار۔
تین لیکنا - (اص) (اص) تین جینا۔

تین ہند - (ہندی) تین ہندی ہندوستان کی بنی ہوئی تلوار جو تیزی
اور مددگی میں مشہور تھی۔
تین ناز - (ص) (اص) ناز و انداز کی تلوار۔ محبوب کے ناز و ادا کو تلوار
سے استعارہ کرتے ہیں۔

تین وکن باندھ کے جانا - (اص) (اص) لڑنے مرنے کے لیے تیار ہونا
تین ہلالی - (ص) (اص) شمشیر لال کی طرح غیر تلوار اس سے اور کو شیر بہی جاتی ہے۔
تینوں سے جینکاریاں اڑنا - (اص) (اص) ایک تلوار کے دوسری
تلوار پر نکلنے سے شرار سے نکلنا۔

تینا - (ص) (اص) (اص) لاشتی کا ایک داؤ (۲) محراب یا دروازے کا
پینا جانا (۳) چھوٹی چھڑی تلوار۔

تینا کرنا (لگانا) - (اص) (اص) ہنر کر دینا چن دینا۔ کسی سوراخ یا دروازے
یا محراب کو اینٹ پتھروں سے بند کر دینا۔
تینے - (ص) (اص) (اص) جھوٹی چھڑی تلوار۔

تینے آبدار - (ص) (اص) تیز تلوار۔ جیک دار تلوار۔ دھار دار تلوار۔
تینے برق تاب - (ص) (اص) (اص) بجلی کی طرح چمکنے والی تلوار۔

تینن - (ص) (اص) (اص) (اص) اعتبار کرنا۔ اعتبار کرنا (۲) یقین اعتبار
رہیکھا - (ص) (اص) (اص) تیز دھار والا، نوکدار (۲) ذہین (۳) تیز مزاج۔

(۴) جیک دار (۵) خوب صورت (۶) شوخ۔ چالاک (۷) بانگا چست
(۸) گانے میں تیز آواز (۹) مشوق۔

تینیکھا پن - (اص) شوخی۔ پیلاہٹ پیچلاہٹ (۲) کج ادائیگی۔ روکھاپن۔
تینیکھی - (اص) (اص) (اص) (اص) تینیکا کی تائینٹ (۲) البیلی۔ رعنا (۳) بانگی۔

تینیکھی چتون - (اص) (اص) (اص) ترچھی نظر (مشوق کی) طیرھی نگاہ۔
تینیکھی چتون کرنا - (اص) (اص) (اص) ترچھی نظر کر کے دیکھنا۔ کج نگاہی سے یا
شوخی سے دیکھنا۔

تیل - (ص) (اص) (اص) روغن جو بیجوں سے نکالا جاتا ہے۔ چکناٹی۔

تیل پان کرنا - (اص) (اص) مایوں بٹھانا۔ ہندوؤں کی ایک رسم جس میں
دو ہاتھ ذہن کے سر ہاتھ اور پاؤں میں تیل اور ہلدی ملی جاتی ہے۔

تیل پانی پر ڈالنا - (اص) (اص) (اص) عوام کا خیال ہے کہ مینہ برستے میں تیل
پانی پر ڈالنے سے ابر کھل جاتا ہے (۲) یورپ کے ملاحوں کا خیال ہے کہ

تیل پانی پر ڈالنے سے طوفان ٹرگ جاتا ہے۔
تیل پانی کا گلاس - (اص) (اص) وہ گلاس جس میں نیچے پانی اور اوپر تیل
بھر کر روغن کی جاتی ہے۔ کنول۔

تیل پھل - (اص) (اص) وہ نارمل اور تیل وغیرہ دو دہما کے ہال سے ڈھن کے
لیے شادی سے چند روز پہلے بھیجا جاتا ہے۔

تیل جو کے ہر جاننا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) ذیق ہو کر نکل جانا (۲) صنایع ہوجانا۔
تیلن۔ (تے۔ لن) (۱۔ ۱۔ ۱۔ ۱) مثلاً (۱) تیل کی بیہوشی (۲) تیلی قوم کی عورت۔
تیلنی۔ (تیل۔ نی) (۱۔ ۱۔ ۱) مثلاً (۱) تیلن (۲) جی (۳) ایک قسم کا کیرا جو تیل میں
پایا جاتا ہے (۴) ایک قسم کی کھٹی۔
تیلی۔ (تے۔ لی) (۱۔ ۱۔ ۱) مثلاً (۱) ایک قوم جو تیل نکالتی ہے (۲) اس قوم کا ایک
فرز (۳) تیل بیچنے والا (۴) (مجازاً) نہایت گندا آدمی۔ میلا شخص
تیلی جوڑے پٹی ملی اور رام (رحمن) لڑھا دوسے لگیا۔ (دش) دیکھے
تیل بنو جوڑے پٹی ملی اور رام (رحمن) لڑھا دوسے لگیا۔
تیلی ختم کرا لگیا (اور پھر بھی روکھا ہی لکھا یا۔ (دش) بڑا کام بھی
کیا اور روکھا پھر بھی نہ ملی۔
تیلی راجھا۔ (۱۔ ۱۔ ۱) مثلاً (۱) فقیروں کا ایک فرقہ جو تیل مانگ کر اپنے پیروں اڈ
سہ پر ملتا ہے (۲) وہ شخص جو بہت میلے پلے پہلے پہنہ۔
تیلی کا بیل۔ (۱۔ ۱۔ ۱) مثلاً (۱) وہ شخص جو رات دن محنت کرتا ہے۔
تیلی کا بیل کیا جانے جنگل کی سار۔ (۱) جش (۱) مقید آدمی کو آزادی
کی قدر نہیں ہوتی۔
تیلی کا تیل مرے کہاری سستی جو۔ (۱) (۱) مثل کسی کے ساتھ بے قاعد
تیل ہمدردی یا جتن بات کے موافق ہر کہتے ہیں۔
تیلی کا تیل خلیے مشقی کڑھے (دش) مزاج کسی کا جو
تیلی کا تیل خلیے مشقی کا دل جلے اور کڑھے کوئی۔
تیلی کا تیل خلیے مشقی کی گاندھیٹھے
تیلی کے تیل کو کھڑی کوس چکاس۔ (دش) عزیز آدمی گھڑیں ہی
کام کرتے کرتے تھک جاتا ہے۔
تیل کے تیلوں میں اور نرسے ٹوٹے ٹھکے۔ (دش) کسی کا نقصان ہو
بہیں کیا لا پر والی جتانے کہتے ہیں۔
تیلی کی جو رو ہو کر پانی میں کیا نہا دوسے۔ (دش) امیر آدمی کی ملازمت
کر کے بھی فائدہ نہ لکھایا، تو پھر کب موقع ملے گا۔
تیلیا۔ (تے۔ ل۔ یا۔ ۱۔ ۱) (۱) صف (۲) تیل کے رنگ کا۔ میلا (۳) پکنا۔ چکنائی
لئے ہوئے (۴) ایک سیاہی مائل رنگ۔
تیلیا جھیس کرنا۔ (۱۔ ۱۔ ۱) محاورہ (۱) نہایت میلے پکیلے کپڑے پہننا۔
تیلیا پانی۔ (۱۔ ۱۔ ۱) مثلاً (۱) کھاری اور تیل ملا ہوا پانی۔ جو پرانے کنوؤں میں
سے نکلتا ہے۔
تیلیا سرنگ۔ (۱۔ ۱۔ ۱) مثلاً (۱) سیاہی مائل سرخ رنگ کا گھوڑا کیت گھوڑا۔
تیلیا سہاگہ۔ (۱۔ ۱۔ ۱) مثلاً (۱) ایک قسم کا سہاگہ جو دیکھنے میں چکنا ہوتا ہے۔
تیلیا کاکریزی۔ (۱۔ ۱۔ ۱) مثلاً (۱) گہرا اودار رنگ۔
تیلیا کھتا۔ (۱۔ ۱۔ ۱) مثلاً (۱) کھتا جو اندر سے سیاہ نکلے۔
تیلیا کیت۔ (۱۔ ۱۔ ۱) مثلاً (۱) سیاہی مائل کیت گھوڑا۔ اس کے بدن کا رنگ
زیادہ تر سرخ اور بال سیاہ ہوتے ہیں۔
تیلیا مسان۔ (۱۔ ۱۔ ۱) مثلاً (۱) نصیبت تیل کی روح، جو بھوت بنے (۲)
بہت کالا آدمی۔

تیلیا مونگیا۔ (۱۔ ۱۔ ۱) مثلاً (۱) بہت سیاہی مائل سرنگ۔
تیلی۔ (تی۔ لی) (۱۔ ۱۔ ۱) مثلاً (۱) سلائی (۲) پنجرے کی تار۔
تیم۔ (تی۔ ۱۔ ۱) مثلاً (۱) نمی رطوبت۔ طراوت۔
تیمار۔ (تی۔ مار) (۱۔ ۱) مثلاً (۱) بیمار کی تیمر گیری (۲) طبیعت کی ناسازی۔
تیمار علاج معالجہ (۳) تیمار دار۔ تیمار کی دیکھ بھال کرنے والا۔
تیمار داری۔ (۱) بیمار کی خدمت۔ تیمار داری (۲) علاج معالجہ۔
تیم۔ (تے۔ یم۔ ۱۔ ۱) مثلاً (۱) پاک کرنا۔ جہارت کرنا۔ مسلمانوں کو اگر پانی
انٹے تو بجائے وضو کے دونوں تھیلیاں مع انگلیوں کے پھیلا کر پاک کرنا
یا کسی اور چیز پر جس سے مٹی چھتی ہو جاتا ہے اس کے بعد منہ اور
دو ہاتھوں پر پھرتے ہیں۔ خاک سے وضو کرنا۔
تیمم کرنا۔ (۱) پانی کے بغیر طہارت کرنا (۲) اصطلاح شرع میں خاک
پر ہمدرد وضو کرنا۔
تیم۔ (تے۔ یم۔ ۱۔ ۱) مثلاً (۱) برکت (۲) کامیابی (۳) برکت لینا۔
تیمنا و تیرکا۔ (۱) برکت اور تبرک کے طور پر۔
تیمور۔ (تی۔ مور) (۱۔ ۱) مثلاً (۱) فراد (۲) ایک مشہور بادشاہ
بلا لفظ واڈ بھی پڑھا جاتا ہے۔
تین۔ (تی۔ ین۔ ۱۔ ۱) کوشش (۲) ٹونے۔
تین۔ (۱۔ ۱) صف (دو اور ایک)۔ ۳۔
تین بلائے تیرہ آئے۔ دسے دال میں پانی۔ (دش)
جب مطلوبہ تعداد سے زیادہ آدمی آجائیں تو اسی میں بیٹا پڑتا ہے۔
(۱) کفایت شمار کرنا۔
تین بلائے تیرہ آئے دیکھو بہاں کی ریت (دش) جب کسی
باہر والے کھائے اور کھائے گا وہی گیت { دعوت پر بتائی
ہوئی مقررہ تعداد سے زیادہ آدمی کھانا کھانے کے لئے آجائیں۔ میزبان کا
سارا کھانا ختم ہو جائے اور وہ اس کے بیوی بچے سب کے سب
بھوکے رہیں۔ بے موقع اور بے مصرف خرچ کرنا۔
تین پانچ کرنا۔ (۱۔ ۱۔ ۱) محاورہ (۱) جھگڑا کرنا۔ دغا بازی کرنا۔ دھوکا دینا۔
تین پٹیر بگاڑنے کے میاں (باغبان) باغ میں۔ (دش) عزیز
شخصی باز کے متعلق کہتے ہیں۔
تین لفرقہ۔ (۱۔ ۱) صف (پریشان۔ پرانگندہ منتشر متفرق۔ تتر بتر۔
تین تلوک نظر آنا۔ (۱۔ ۱) محاورہ (۱) زمین۔ آسمان اور پاتال کا دکھائی پڑنا
(۲) بے حد پریشان ہونا۔
تین تیرا۔ (۱۔ ۱) صف (تتر بتر۔
تین تیرا کٹھ اٹھارہ۔ (۱۔ ۱) محاورہ (۱) پریشان۔ خراب ہشت۔
تین تیرا تیرا۔ (تی۔ تیرا) (۱) خرابی۔ استری۔
تین تیرہ بارہ باٹ۔ (۱۔ ۱) مثلاً (۱) صنایع۔ بر باد۔ تباہ۔
تین تیرہ کرنا۔ (۱۔ ۱) محاورہ (۱) پریشان کرنا۔ تتر بتر کرنا۔ (۲) خرچ کرنا۔ (۳) اڑا دینا
تین ٹانگ کی کھی (کھوڑی) لومنی کی لادنی۔ (دش) طاقت
سے زیادہ کام لینے کے موقع پر کہتے ہیں۔

تیسور (پہچاننا) تانڑ جانا۔ (۱۔ محاورہ) تپانے سے مزاج کا حال معلوم ہونا۔
 تیسور بوجھینا۔ (۱۔ محاورہ) نظر سے دل کا حال معلوم کرنا۔
 تیسور بدل آنا۔ (۱۔ محاورہ) ہٹنے کے آثار ظاہر ہونا۔
 تیسور ٹھننا۔ (۱۔ محاورہ) چکا چوند ہونا۔ روشنی برداشت نہ کر سکتا (۲) بیٹائی کم ہونا۔ بصارت میں فرق آجانا۔
 تیسور دیکھنا۔ (۱۔ محاورہ) صورت یا نگاہ سے مزاج کی حالت دیکھنا۔
 طبیعت کا رنگ دیکھنا۔
 تیسور تھیلے ہونا۔ (۱۔ محاورہ) آنکھوں سے کمزورت اور ملال لپکنا چہرے یا نگاہ سے ناراضی ظاہر ہونا۔

تیسور اگر کرنا۔ (۱۔ محاورہ) جھکا کر گر کرنا۔ بے ہوش ہونا۔
 تیسور انا۔ (تیسور انا)۔ (۱۔ محاورہ) آنکھوں کے آگے اندھیرا آنا۔ تیرگی چھانا۔ غشی کی حالت ہونا۔

تیسور کس۔ (تیسور کس)۔ (۱۔ محاورہ) آئندہ یا گذرا ہوا تیسرا برس۔
 تیسوری۔ (ت۔ یور ری)۔ (۱۔ محاورہ) نظر۔ جتوں۔ نگاہ۔ پیشانی (۲) ہاتھ کی سلاط
 تیسوری (بدلتنا) پڑھنا۔ تیسوری میں بل ڈالتا۔ (۱۔ محاورہ) عین
 بجیس ہونا۔ غصے ہونا۔

تیسوری پٹی۔ (۱۔ محاورہ) مغزور عورت۔ بددماغ عورت۔
 تیسوری (تیسور ٹھننا) میں بل بڑھنا۔ (۱۔ محاورہ) ہٹنے پر شکن پڑنا۔ آئندہ ہونا۔
 تیسوری کا بل کھلنا۔ (۱۔ محاورہ) بخش رنج ہونا۔

تیتون۔ (تی۔ دن)۔ (۱۔ محاورہ) پستی (۲) عمارتوں۔ تزکاری۔
 تیتون بن نہ روئی سوئے، کوندھے بن نہ چوئی سوئے۔ (۱۔ محاورہ)
 سالن کے بغیر روئی اچھی نہیں لگتی اور چوئی بغیر کوندھے اچھی نہیں لگتی۔

تیتولار۔ (ت۔ یو۔ بار)۔ (۱۔ محاورہ) خوشی کا دن۔ جشن۔ دیکھنے تہوار۔
 تیتولاری۔ (ت۔ یو۔ بار)۔ (۱۔ محاورہ) جشن۔ عید۔ تیتولار کے
 متعلق۔ تیتولار کا۔

تیتہ۔ تیتہا۔ (تیتہ)۔ (۱۔ محاورہ) غصہ غضب (۲) تیزی۔ جوش۔
 تترارت۔

تیتہو۔ (تی۔ جو)۔ (۱۔ محاورہ) تیتہ کی قسم کا ایک چھوٹا سا پرندہ۔
 تیتیس۔ (تے۔ ایس)۔ (۱۔ محاورہ) تین اور بیس۔ ۲۳۔

تین چپاتی تو براتی کھاؤ جو روم جو۔ (۱۔ محاورہ) جب کوئی عورت کسی
 دعوت وغیرہ کے موقع پر کچھ ہی کرتی ہے تو تو تین تھپنے کے طور پر کہتی ہیں۔
 تین حرف بھیننا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) لعنت بھیننا (۲) ترک کرنا۔ چھوڑ دینا۔
 تین دن قبر گور میں بھی بھاری ہیں۔ (۱۔ محاورہ) مسلمانوں کے
 اعتقاد میں قبر میں تین دن تک حساب کتاب ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے
 کہ دنیائے معاملات بعد مرگ بھی بچھا نہیں چھوڑتے۔
 تین رمی قانون۔ (۱۔ محاورہ) (۱) حساب (۲) اربعہ تقاسیم۔
 تین کانے۔ (۱۔ محاورہ) کانے کے تین نطفے۔ جب تین نشان ایک
 ایک کر کے اکٹھے کریں۔ یہ تیر سے کم شمار ہوتے ہیں (۲) (بجائز) ناگامی۔

تین نامرادی۔
 تین روزہ زندگی۔ (۱۔ محاورہ) انسان کی عمر جو بہت مختصر ہے۔
 تین گناہ خدا بھی بخشا ہے۔ (۱۔ محاورہ) جب کسی سے معافی مانگی
 ہو۔ تو کہتے ہیں۔

تین میں نہ تیسرہ میں۔ (۱۔ محاورہ) (۱) اس شخص کے تعلق کہتے ہیں جو
 بہانہ سمجھتی سمجھتا ہے کہ ہوا اور جس کی کوئی قدر نہ ہو (۲) ہنگام آدمی۔

تیر تیرا۔ (تیر۔ ت۔ نا)۔ (۱۔ محاورہ) وہ بیٹا جو تین بیٹوں کے بعد پیدا ہو۔
 تیر تیری۔ (تیر۔ ت۔ ری)۔ (۱۔ محاورہ) وہ بیٹی جو تین بیٹوں کے بعد پیدا ہو۔
 تیر تیر۔ (تیر۔ ت۔ ری)۔ (۱۔ محاورہ) درخت کی لکڑی جو جلنے میں پختی ہے۔

تیر تیرو۔ (تیر۔ ت۔ ری)۔ (۱۔ محاورہ) ایک درخت کا پھل۔
 تیر تیرا۔ (تیر۔ ت۔ ری)۔ (۱۔ محاورہ) ایک درندہ۔ جو پیتے کی قسم کا
 ہوتا ہے۔

تیرندوں۔ (تیر۔ ت۔ ری)۔ (۱۔ محاورہ) ایک پھل کا نام۔

تیرنوں۔ (تیر۔ ت۔ ری)۔ (۱۔ محاورہ) تین کے تین۔

تیرور۔ (تیر۔ ت۔ ری)۔ (۱۔ محاورہ) نظر۔ جتوں (۲) چہرے کا طور یا ڈھنگ (۳) بھوں
 (۴) بیٹائی بصارت (۵) آنکھوں کے آگے اندھیرا آنا۔

تیسور بدل جانا۔ (۱۔ محاورہ) بے مروت ہونا۔ نگاہیں پھر جانا۔
 تیسور بڑے نظر آنا۔ (۱۔ محاورہ) نگاہ بد معلوم ہونا۔ نقصان پہنچانے
 معلوم ہونا۔

تیسور کھڑنا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) پہلی سی نظر نہ رہنا۔ بے مروت ہونا (۲) ہنگام ہونا
 سے تنگی ظاہر ہونا۔

ٹ

ٹے (ہ۔ مٹ) اُردو حرف تہجی کا پانچواں اور ہندی زبان کا گیارھواں حرف۔ فارسی اور عربی زبانوں میں نہیں ہے۔ اسے تائے ثقیلہ اور تائے ہنکی بھی کہتے ہیں۔ حساب ابجد میں اس کے اعداد چار سو ہیں۔ بعض کلمات کے آخر میں اگر مصدری معنی دیتا ہے (جیسے سجاوٹ۔ بناوٹ)۔

ٹ - ا

ٹاگر - (ٹا، گر) (ہ۔ ا۔ مذ) (۱) طبر - خاندان - کُنبہ (۲) چھوٹا سا گھر (۳) چھوٹی بھیل (۴) چھوکرا - کم عمر لڑکا۔

ٹاپ - (ہ۔ ا۔ نث) (۱) گھوڑے کا سم (۲) گھوڑے کے اگلے پاؤں کی ضرب (۳) گھوڑے کے چلنے یا دوڑنے کی آواز (۴) تھاب - ہاتھ مارنے کی آواز (۵) پھلیاں پڑنے کا کھانچہ (۶) چارپائی کے تائے کا گردا بوزین پر لٹکا ہوتا ہے (۷) گدڑ کا پچھلا موٹا حصہ (۸) فرشی حصے کا پچھلا حصہ (۹) ڈھول بجانے کی چوٹ۔

ٹاپ دار - (ہ۔ ف۔ صفت) آگے سے چوڑا پیچھے سے پتلا۔ موٹے سرے کا - گرہ دار۔

ٹاپ سہارنا - (ا۔ محاورہ) جھلیف برداشت کرنا۔ مصیبت بھیلنا۔

ٹاپ مارنا - (ا۔ محاورہ) گھوڑے کا چلنے یا دوڑنے میں زمین پر سم مار کر آواز پیدا کرنا۔ بے گل ہونا۔ جھلا ٹنگ مار کر کوڑا جانا۔

ٹاپا - (ٹا، پا) (ہ۔ ا۔ مذ) (۱) مڑھنیوں کا کھانچہ (۲) لکڑی کی جالی دار چوکھٹ جو بچوں کے چوکڑے پر ڈھانکتے ہیں (۳) چوکھٹ دار ڈھلنا (۴) کپڑے کا غلاف (۵) ایک قسم کی شتی - جس پر چوکھٹ دار ڈھلنا (۶) پھلی پڑھنے کی ڈنگ (رق)

ٹاپا توڑ کر نکل جانا - (ا۔ محاورہ) (۱) صاف نکل جانا (۲) بچ جانا۔

ٹاپا ٹوہینا - (ہ۔ ا۔ مذ) تلاش - جستجو۔

ٹاپا پٹوٹی کرنا - (ا۔ محاورہ) ٹوٹنا۔ ٹوہنا۔ ڈھونڈنا۔ کھوجنا (۲) چپکتی چھت کی مرمت کرنا۔

ٹاپتا پھرنا - (ٹاپ - تپا - پھرنا) (ہ۔ مصل) (۱) مارا مارا پھرنا (۲) حیران و پریشان پھرنا۔ بھٹکتا پھرنا (۳) غصے کی حالت میں اٹھلنا کودنا۔

ٹاپتا رہ جانا - (ٹاپ - تا - رہ - جا - نا) (ہ۔ مصل) (۱) کسی چیز کی آرزو یا انتظار میں بیٹھا رہ جانا (۲) کوئی چیز نہ ملنے سے دل ہار کر بیٹھ جانا۔ (۳) افسوس کرنا۔

ٹاپتی - (ٹاپ - تی) (ہ۔ ا۔ مٹ) ایک قسم کا ریشمی کپڑا۔

ٹاپتا پتا - (ٹاپ - پ - نا) (ہ۔ مصل) (۱) کسی چیز کی تلاش میں حیران و پریشان ہونا۔ ڈھونڈنا۔ کوشش کرنا (۲) انتظار کرنا (۳) بیچار پھرنا (۴) بے چین ہونا (۵) افسوس کرنا (۶) کودنا۔ پھانڈنا (۷) گھوڑے کا زمین پر پاؤں مارنا۔

ٹاپو - (ٹا، پو) (ہ۔ ا۔ مذ) جزیرہ - خشکی کا قطعہ جو چاروں طرف پانی سے گھرا ہوا ہوتو۔

ٹاٹ - (ہ۔ ا۔ مذ) (۱) سن کا بنا ہوا کپڑا۔ بوری کا کپڑا (۲) ساہو کار کے بیٹھنے کی گدی (۳) بوٹ کا سبز خول جس کے اندر چنا ہوتا ہے (۴) چٹائی۔

ٹاٹا - (ٹا، ٹا) (ہ۔ ا۔ محاورہ) (۱) دیوالہ نکلنا۔ دیوالیہ ہو جانا۔

ٹاٹ باف - (ہ۔ ف۔ مذ) جوتی پر سونے چاندی کے تارٹا بنکے ٹوالا۔ زردوز۔

ٹاٹ بانفی جوتا - (ہ۔ ف۔ ا۔ مذ) یہ دراصل تار بانفی جوتا ہے۔ یعنی وہ جوتا جس پر کلا بتون کا کام ہو۔ کا مڈا جوتا۔

ٹاٹ بانسہ ہونا - (ا۔ محاورہ) برادری سے خارج ہونا۔

ٹاٹ کانگولٹا، نواب سے یاری - (نشل) (۱) منگلی میں ایسٹ سے دوستی (۲) اپنی حیثیت سے بڑھ کر قدم مارنے والے پریشیل کمی جاتی ہے۔

ٹاٹ، کانگلا، ڈولرا، تینوں جات کلام - جت جیے جت پیٹھ کر ترت کر ولسرام - (نش) ٹاٹ، کبل اور دوہی یہ تینوں دیسے تو کھٹا بیسہڑ میں نگرانے آرام بہت ملتا ہے۔

ٹاٹ کا ملی گھر میں کھالے - بانسہ تباوے شال دوشالے - (نش) معمولی حیثیت کا آدمی اپنے بارے میں شیخیاں بگھارے تو اس پر یہ مثل کہتے ہیں۔

ٹاٹ کی انگلیاں ٹوٹنے کی تہی - دیکھ میرے دیوار میں کیسی بنی - (نش) غلط اور بے جا حرکت پر اترانا۔

ٹاٹ میں ٹوٹنے کا بچہ - (نش) جیسی چیز ویسا اس کا ساز و سامان۔

ٹاٹا - (Tata) (ٹا، ٹا) (انگ) - مذ خدا حافظ - فی امان اللہ۔

ٹاٹری - (ٹا، ٹ) (ری) (انگ) (مٹ) [کرم آف ٹاٹری] کا مخفف - وہ سال جس سے غیر اٹھاتے ہیں۔

ٹاٹرا - (انگ) (ا۔ مذ) گندہ بروزا - تار کول - کول تار - سیاہ رنگ کا مادہ جو پتھر کے کونے سے نکالا جاتا ہے۔

ٹاٹرا - (ٹا، ٹا) (ہ۔ ا۔ مذ) وہ کوہوترا جو درنگ اٹوتا ہے۔

ٹاٹرا ٹوک - وزن میں ٹھیک یا ٹوٹا۔

ٹاٹراج - (Torch) (انگ) (مٹ) (۱) مشعل - فلیٹہ (۲) ایک نلکی جس کے اندر سیل (Cell) ہوتا ہے اور منہ پر لب لگا ہوتا ہے۔

ٹاٹس - (Toss) (انگ) (ا۔ مذ) کئے کو اچھال کر اس امر کا فیصلہ کرنا کہ کون کسی کام کو پہلے شروع کرے۔

ٹاٹنی - (ٹا، ٹنی) (انگ) (مٹ) (۱) ایک قسم کی انگریزی مٹائی۔

ٹاٹک - (رق - صفت - ط - ا۔ مذ) (۱) جلد (۲) گھونٹ۔

دفعہ کپڑے کے اندر گھس کر باہر نکلنا (۲) زخم کا ایک مرتبہ بخیر (۳) دھات جوڑنے کا سالہ (۴) کپڑے یا چمڑے یا دھات کا جوڑ یا پیوند (۵) حوصل یا تالاب جس میں برساتی پانی پینے کے لیے اکٹھا کرتے ہیں۔ پیوند۔
ٹانگہ اُدھر چرنا یا اُدھر چرنا (۱) محاورہ (۲) سلائی (کے ٹانگے) اُدھر چرنا۔ (۲) تباہ و برباد ہو جانا، بغض ہو جانا، (۳) پھیل گھیل جانا، حقیقت آشکار ہونا۔

ٹانگہ اُدھر چرنا (۱) محاورہ (۲) بچنے کے دھانگے آہستہ آہستہ نکال دینا۔ سلائی اُدھر چرنا۔ سیون کھولنا (۲) راز فاش کرنا، نقلی کھولنا۔ شیرازہ بکھیر دینا۔ سب حال ظاہر کر دینا۔ پوست کندہ حالات بنا دینا (۳) تباہ و برباد کرنا (۴) عاجز کرنا نہیں بلوانا۔ پُرانا۔

ٹانگہ پھرنا (پھیرنا) (۱) محاورہ (۲) سینا (۳) پھینکا پرانا مرمت کرنا (۴) زخم سینا (۵) عیب پوشی کرنا (۶) مصیبت میں تسلی دینا۔

ٹانگہ ٹوٹنا (۱) محاورہ (۲) سیون اُدھر چرنا (۳) سیون کا دھاک ٹوٹ جانا۔ (۴) زخم کی سیون کا دھاک ٹوٹنا (۵) جہمت مار دینا۔ گھبرا جانا۔

ٹانگہ نکا جانا (۱) محاورہ (۲) کسی جگہ ایسے مطلب کی تدبیر کرنا۔
ٹانگہ جھانسا (لگانا) (۱) ٹوٹے ہوئے زبور یا برتن کو ٹانگہ لگا کر جوڑ دینا (۲) بار بار گناہ نظر لینا (۳) کپڑا سینا (۴) زخم سینا۔

ٹانگہ کاٹ لینا (۱) محاورہ (۲) نوردے ٹٹنے کی قیمت کاٹ کر دام ادا کرنا۔
ٹانگہ کھانا (۱) محاورہ (۲) ٹانگہ لگانا (۳) ٹانگے کٹنے کی صلاحیت ہونا (۴) زخم سلوانا۔

ٹانگہ کھلنا (۱) محاورہ (۲) سیون کھل جانا۔ کپڑے یا چمڑے وغیرہ کا اُدھر چرنا (۳) عیب ظاہر ہونا۔ پھیل گھیل جانا۔ راز فاش ہو جانا۔

ٹانگہ لگانا (۱) محاورہ (۲) کپڑا سینا۔ زخم سینا۔ ٹوٹے ہوئے برتن یا زبور میں ٹانگے سے جوڑ لگانا (۳) دوستی یا میل ملاپ کرانا۔ نسبت کرانا۔ شادی کرنا (۴) پرند کی آنکھیں سی دینا۔

ٹانگہ مارنا (۱) محاورہ (۲) موٹی سلائی کرنا (۳) جلدی جلدی سینا (۴) گھونپنا۔ ٹانگے ڈھیلے ہونا (۵) محاورہ (۶) جہمت پست ہونا۔ جہمت مار دینا۔ سستی آجانا (۷) عزت جاتی رہنا (۸) بدحواس ہونا۔ پریشان خیالی کا شکار ہو جانا (۹) ارادے میں ضعف آجانا۔

ٹانگے کاٹ ڈالنا (۱) محاورہ (۲) سیوا ہو، قیمتی یا نشتر سے کاٹ دینا۔
ٹانگے کاچی (۱) صفت (۲) ایسا درزی یا درزن جس کے ہاتھ کی سیون جلدی اُدھر چراتے (۳) وہ زبور جس میں کمر ڈالنا لگا ہو۔

ٹانگہ لگانا (۱) ٹانگے (۲) وہ حص (۳) سینا (۴) موٹی یا نسبت یا چوکا ہوئی ٹانگے سے لگانا (۵) زخم سینا (۶) جوتا سینا (۷) باندھنا۔ جوڑنا۔ ٹانگے لگانا (۸) نقلی کرنا (۹) ٹوٹے ہوئے برتن یا زبور کو جوڑنا (۱۰) لکھنا۔ یادداشت رکھنا۔ (۱۱) داخل کرنا۔ لگانا۔ دینا (۱۲) کھا جانا (۱۳) آویزاں کرنا (۱۴) بچنا۔ جھنکار ہونا (۱۵) دق

ٹانگہ بچھ (۱) مذ (۲) زمین دوز تالاب۔ جس میں پانی کا ذخیرہ کیا جائے۔
ٹانگہ لگنی (۱) لگنی (۲) موٹی (۳) خربوزے تریوز کی جھانگ۔ جس سے معلوم کیا جائے پل بیٹھا ہے یا نہیں (۴) سنگ تراشوں کا ایک اوزار۔ جھینبی (۵) سونچ پھید (۶) آتشک یا سوزاک کا زخم (۷) آرزے کا دندان (۸) کٹڑی یا لوہے کا

پانی رکھنے کا برتن۔
ٹانگہ بچھنا (۱) محاورہ (۲) بھارت کی تعمیر ہونا (۳) سنگ تراشی کا کام ہونا۔
ٹانگہ لگانا (۱) محاورہ (۲) پھید کرنا۔ سونچ کرنا۔ پھانگ تراش کر خربوزے یا تریوز کی اندرونی کیفیت معلوم کرنا۔

ٹانگہ (۱) (۲) (۳) (۴) (۵) (۶) (۷) (۸) (۹) (۱۰) (۱۱) (۱۲) (۱۳) (۱۴) (۱۵) (۱۶) (۱۷) (۱۸) (۱۹) (۲۰) (۲۱) (۲۲) (۲۳) (۲۴) (۲۵) (۲۶) (۲۷) (۲۸) (۲۹) (۳۰) (۳۱) (۳۲) (۳۳) (۳۴) (۳۵) (۳۶) (۳۷) (۳۸) (۳۹) (۴۰) (۴۱) (۴۲) (۴۳) (۴۴) (۴۵) (۴۶) (۴۷) (۴۸) (۴۹) (۵۰) (۵۱) (۵۲) (۵۳) (۵۴) (۵۵) (۵۶) (۵۷) (۵۸) (۵۹) (۶۰) (۶۱) (۶۲) (۶۳) (۶۴) (۶۵) (۶۶) (۶۷) (۶۸) (۶۹) (۷۰) (۷۱) (۷۲) (۷۳) (۷۴) (۷۵) (۷۶) (۷۷) (۷۸) (۷۹) (۸۰) (۸۱) (۸۲) (۸۳) (۸۴) (۸۵) (۸۶) (۸۷) (۸۸) (۸۹) (۹۰) (۹۱) (۹۲) (۹۳) (۹۴) (۹۵) (۹۶) (۹۷) (۹۸) (۹۹) (۱۰۰)

ٹانگہ (۱) محاورہ (۲) بچھنا (۳) بچھنا (۴) بچھنا (۵) بچھنا (۶) بچھنا (۷) بچھنا (۸) بچھنا (۹) بچھنا (۱۰) بچھنا (۱۱) بچھنا (۱۲) بچھنا (۱۳) بچھنا (۱۴) بچھنا (۱۵) بچھنا (۱۶) بچھنا (۱۷) بچھنا (۱۸) بچھنا (۱۹) بچھنا (۲۰) بچھنا (۲۱) بچھنا (۲۲) بچھنا (۲۳) بچھنا (۲۴) بچھنا (۲۵) بچھنا (۲۶) بچھنا (۲۷) بچھنا (۲۸) بچھنا (۲۹) بچھنا (۳۰) بچھنا (۳۱) بچھنا (۳۲) بچھنا (۳۳) بچھنا (۳۴) بچھنا (۳۵) بچھنا (۳۶) بچھنا (۳۷) بچھنا (۳۸) بچھنا (۳۹) بچھنا (۴۰) بچھنا (۴۱) بچھنا (۴۲) بچھنا (۴۳) بچھنا (۴۴) بچھنا (۴۵) بچھنا (۴۶) بچھنا (۴۷) بچھنا (۴۸) بچھنا (۴۹) بچھنا (۵۰) بچھنا (۵۱) بچھنا (۵۲) بچھنا (۵۳) بچھنا (۵۴) بچھنا (۵۵) بچھنا (۵۶) بچھنا (۵۷) بچھنا (۵۸) بچھنا (۵۹) بچھنا (۶۰) بچھنا (۶۱) بچھنا (۶۲) بچھنا (۶۳) بچھنا (۶۴) بچھنا (۶۵) بچھنا (۶۶) بچھنا (۶۷) بچھنا (۶۸) بچھنا (۶۹) بچھنا (۷۰) بچھنا (۷۱) بچھنا (۷۲) بچھنا (۷۳) بچھنا (۷۴) بچھنا (۷۵) بچھنا (۷۶) بچھنا (۷۷) بچھنا (۷۸) بچھنا (۷۹) بچھنا (۸۰) بچھنا (۸۱) بچھنا (۸۲) بچھنا (۸۳) بچھنا (۸۴) بچھنا (۸۵) بچھنا (۸۶) بچھنا (۸۷) بچھنا (۸۸) بچھنا (۸۹) بچھنا (۹۰) بچھنا (۹۱) بچھنا (۹۲) بچھنا (۹۳) بچھنا (۹۴) بچھنا (۹۵) بچھنا (۹۶) بچھنا (۹۷) بچھنا (۹۸) بچھنا (۹۹) بچھنا (۱۰۰)

ٹانگہ اٹھانا (۱) محاورہ (۲) ٹانگہ اُپنی کرنا (۳) جماع کرنا (۴) جماع کے لیے تیار ہو جانا۔ (۵) آس لینا۔

ٹانگہ اٹھنے نہ چڑھا جانے کا معنی (۱) (۲) (۳) (۴) (۵) (۶) (۷) (۸) (۹) (۱۰) (۱۱) (۱۲) (۱۳) (۱۴) (۱۵) (۱۶) (۱۷) (۱۸) (۱۹) (۲۰) (۲۱) (۲۲) (۲۳) (۲۴) (۲۵) (۲۶) (۲۷) (۲۸) (۲۹) (۳۰) (۳۱) (۳۲) (۳۳) (۳۴) (۳۵) (۳۶) (۳۷) (۳۸) (۳۹) (۴۰) (۴۱) (۴۲) (۴۳) (۴۴) (۴۵) (۴۶) (۴۷) (۴۸) (۴۹) (۵۰) (۵۱) (۵۲) (۵۳) (۵۴) (۵۵) (۵۶) (۵۷) (۵۸) (۵۹) (۶۰) (۶۱) (۶۲) (۶۳) (۶۴) (۶۵) (۶۶) (۶۷) (۶۸) (۶۹) (۷۰) (۷۱) (۷۲) (۷۳) (۷۴) (۷۵) (۷۶) (۷۷) (۷۸) (۷۹) (۸۰) (۸۱) (۸۲) (۸۳) (۸۴) (۸۵) (۸۶) (۸۷) (۸۸) (۸۹) (۹۰) (۹۱) (۹۲) (۹۳) (۹۴) (۹۵) (۹۶) (۹۷) (۹۸) (۹۹) (۱۰۰)

ٹانگہ اڑنا (۱) محاورہ (۲) اڑنا (۳) اڑنا (۴) اڑنا (۵) اڑنا (۶) اڑنا (۷) اڑنا (۸) اڑنا (۹) اڑنا (۱۰) اڑنا (۱۱) اڑنا (۱۲) اڑنا (۱۳) اڑنا (۱۴) اڑنا (۱۵) اڑنا (۱۶) اڑنا (۱۷) اڑنا (۱۸) اڑنا (۱۹) اڑنا (۲۰) اڑنا (۲۱) اڑنا (۲۲) اڑنا (۲۳) اڑنا (۲۴) اڑنا (۲۵) اڑنا (۲۶) اڑنا (۲۷) اڑنا (۲۸) اڑنا (۲۹) اڑنا (۳۰) اڑنا (۳۱) اڑنا (۳۲) اڑنا (۳۳) اڑنا (۳۴) اڑنا (۳۵) اڑنا (۳۶) اڑنا (۳۷) اڑنا (۳۸) اڑنا (۳۹) اڑنا (۴۰) اڑنا (۴۱) اڑنا (۴۲) اڑنا (۴۳) اڑنا (۴۴) اڑنا (۴۵) اڑنا (۴۶) اڑنا (۴۷) اڑنا (۴۸) اڑنا (۴۹) اڑنا (۵۰) اڑنا (۵۱) اڑنا (۵۲) اڑنا (۵۳) اڑنا (۵۴) اڑنا (۵۵) اڑنا (۵۶) اڑنا (۵۷) اڑنا (۵۸) اڑنا (۵۹) اڑنا (۶۰) اڑنا (۶۱) اڑنا (۶۲) اڑنا (۶۳) اڑنا (۶۴) اڑنا (۶۵) اڑنا (۶۶) اڑنا (۶۷) اڑنا (۶۸) اڑنا (۶۹) اڑنا (۷۰) اڑنا (۷۱) اڑنا (۷۲) اڑنا (۷۳) اڑنا (۷۴) اڑنا (۷۵) اڑنا (۷۶) اڑنا (۷۷) اڑنا (۷۸) اڑنا (۷۹) اڑنا (۸۰) اڑنا (۸۱) اڑنا (۸۲) اڑنا (۸۳) اڑنا (۸۴) اڑنا (۸۵) اڑنا (۸۶) اڑنا (۸۷) اڑنا (۸۸) اڑنا (۸۹) اڑنا (۹۰) اڑنا (۹۱) اڑنا (۹۲) اڑنا (۹۳) اڑنا (۹۴) اڑنا (۹۵) اڑنا (۹۶) اڑنا (۹۷) اڑنا (۹۸) اڑنا (۹۹) اڑنا (۱۰۰)

ٹانگہ اڑنا (۱) محاورہ (۲) ایک پہلوان کا دوسرے پہلوان کو ٹانگہ پکڑ کر جھٹ کرنا (تنگڑی کا بیچ)
ٹانگہ اوہل کے مرگنا (۱) محاورہ (۲) کسی کی حالت میں مرا۔ مرتے وقت کوئی خبر لینے والا نہ تھا۔

ٹانگہ برابر (۱) صفت (۲) چھوٹا سا۔ ذرا سا۔ گستاخ پتھے کے باسے میں کہتے ہیں۔

ٹانگہ پیسار کے سونا (۱) محاورہ (۲) بے فکر یا پختہ ہو کر سونا بے فکری کی نیند سونا۔

ٹانگہ کپڑے کے لائے اور پونچھ کپڑے پہا دیا (۱) (۲) (۳) (۴) (۵) (۶) (۷) (۸) (۹) (۱۰) (۱۱) (۱۲) (۱۳) (۱۴) (۱۵) (۱۶) (۱۷) (۱۸) (۱۹) (۲۰) (۲۱) (۲۲) (۲۳) (۲۴) (۲۵) (۲۶) (۲۷) (۲۸) (۲۹) (۳۰) (۳۱) (۳۲) (۳۳) (۳۴) (۳۵) (۳۶) (۳۷) (۳۸) (۳۹) (۴۰) (۴۱) (۴۲) (۴۳) (۴۴) (۴۵) (۴۶) (۴۷) (۴۸) (۴۹) (۵۰) (۵۱) (۵۲) (۵۳) (۵۴) (۵۵) (۵۶) (۵۷) (۵۸) (۵۹) (۶۰) (۶۱) (۶۲) (۶۳) (۶۴) (۶۵) (۶۶) (۶۷) (۶۸) (۶۹) (۷۰) (۷۱) (۷۲) (۷۳) (۷۴) (۷۵) (۷۶) (۷۷) (۷۸) (۷۹) (۸۰) (۸۱) (۸۲) (۸۳) (۸۴) (۸۵) (۸۶) (۸۷) (۸۸) (۸۹) (۹۰) (۹۱) (۹۲) (۹۳) (۹۴) (۹۵) (۹۶) (۹۷) (۹۸) (۹۹) (۱۰۰)

ٹانگہ تلے (ٹانگہ کے نیچے) سے نکل جانا (نکلنا) (۱) محاورہ (۲) بار بار لینا۔ مغلوب ہو جانا۔ شکست کا اقرار کر لینا۔

ٹانگہ تلے (ٹانگہ کے نیچے) سے نکال دینا (نکالنا) (۱) محاورہ (۲) بیچا دکھانا۔ ہرانا۔ عاجز کر دینا (۳) اطاعت کروانا۔
ٹانگہ ٹوڑ کے بیٹھنا (۱) محاورہ (۲) جم کے بیٹھنا۔ ایک جگہ بیٹھے رہنا۔ جہاں بیٹھ جانا۔ وہاں سے نہ اٹھنا۔

ٹانگہ ٹوڑنا (۱) محاورہ (۲) پانچ کر دینا۔ کسی کام کا نہ رہنے دینا (۳) کسی زبان کی معمولی شہ بد پردہ زبان لکھنے بولنے یا پڑھنے کی کوشش کرنا۔

ٹانگہ دینا (۱) محاورہ (۲) شکار دینا۔ بھانسی پر چڑھا دینا۔
ٹانگہ تے ٹانگہ باندھ کر بٹھانا (۱) محاورہ (۲) اپنے پاس اس طرح بیٹھانا کہ وہاں سے ملنے یا ہر گز نہ دینا۔ پہلو میں بیٹھانا۔
ٹانگہ لگانا (۱) محاورہ (۲) کسی میں ٹانگہ کا بیچ لگانا۔

ٹاؤن - (Town) (ٹا۔ اُن) (انگ۔ ۱۔ مذ) بلدیہ۔ قصبہ۔ سٹی۔ شہر۔
ٹاؤن ہال - (Town Hall) (شہر کی وہ عمارت۔ جس میں میونسپل
 کمیٹی وغیرہ کا دفتر ہو۔
ٹائی - (Tie) (ٹا۔ ای) (انگ۔ ۱۔ ص) خوشنما۔ ریشمی۔ ادنیٰ یا سوتی فیٹہ
 جو معمولی لباس میں ٹیئس کے کار کے ساتھ پہنتے ہیں۔
ٹائپائیڈ - (Typhoid) (ٹا۔ ٹی۔ فا۔ ایڈ) (انگ۔ ۱۔ مذ) معادی بخار۔
ٹائیس ٹائیس - (ٹا۔ ایس۔ ٹائیس) (ہ۔ ا۔ مٹ) [بھواس۔ کائیس کا میٹ۔
 طوطے کی آواز۔
ٹائیس فوش - بھواس بہت بے نتیجہ کچھ نہیں۔ خرچ بہت حاصل کچھ نہیں۔
ٹائیگر - (ٹا۔ بئر) (ہ۔ ا۔ مذ) جھوٹا اور ڈلا گھوڑا۔
ٹائیگری - (ٹا۔ بی۔ ری) (ہ۔ ا۔ مٹ) ٹائیگر کا مونٹ۔ دہلی گھوڑی۔

ٹ۔ ب

ٹب - (Tub) (ٹب۔ اُنک) (مذ) ٹانڈ۔ بڑا برتن جو کپڑے دھونے یا نہانے
 کے کام آئے۔
ٹبٹا - (ٹب۔ با) (ہ۔ ا۔ مذ) ٹیلا۔ اونچی جگہ۔
ٹبٹر - (ٹب۔ بز) (ہ۔ ا۔ مذ) [خانہ دان۔ قبیلہ۔ اقربا۔ اہل دعیال (۲)
 مال اسباب (۳) گھر کا خرچ (۴) انتظام کا باریا ذمہ داری۔

ٹ۔ پ

ٹپ - (ہ۔ ا۔ مذ) (۱) ٹپکنے کی آواز (بارش کی) بوندیں گرنے کی آواز (۲)
 [مذ] گالی کا سناٹان (ہنڈ) جو دو ٹپ یا بارش روکنے کے لیے ہوتا
 ہر سے (۳) جھکے کی دو تہوں میں سے ایک تہ۔
ٹپ ٹپ - (۱) کسی سیال چیز کے بوند بوند گرنے کی آواز (۲) آنسوؤں
 گرنے کی آواز (۳) لگاتار بوندیں گرنے کی آواز۔
ٹپ ٹپ آنسو گرتا - (مذ) آنسوؤں کا تار بندھنا۔ لگاتار رونا۔
ٹپ سے بول اٹھنا - (۱) بے چوچھے بول اٹھنا (۲) جھٹ بول اٹھنا۔
ٹپ (Tip) (انگ۔ ۱۔ مذ) معمولی انعام یا بخشش۔ جو نقل، بیرے،
 وچپڑا سی وغیرہ کو دیا جاتا ہے۔
ٹپ دینا - (۱) عمارت کسی محنت پیشہ آدمی کو معمولی انعام دینا۔
ٹپٹا - (ٹپ۔ با) (ہ۔ ا۔ مذ) (۱) گود۔ پھانڈ (۲) فاصلہ (بندوبستی کی) نزد (۳)
 دور دور کا پھیند یا پیچھے (۴) ایک قسم کا گیت (۵) دکئی ہولی میں ڈاک خانہ (۶)
 ایک قسم کا پھنگ (۷) ضلع یا پرگنے کا حصہ (۸) ڈاک یا پانگی لے جانے والوں کی
 چوکی (۹) مقام۔ مرحلہ۔ پڑاؤ (۱۰) کسی جو بادباؤں سے چلتی ہے۔
ٹپا بھرتا۔ ٹپا ڈالنا۔ (۱) عمارت بولی سلائی کرنا۔ دور دور بچھڑ کرنا۔ کچی سلائی
 پتر کرنا۔ ٹپے ڈالنا یا ٹپے بھرتا بولتے ہیں۔
ٹپا کھانا۔ (۱) عمارت بولی یا گیند وغیرہ کا کسی چیز سے ٹکرانا پھلتا۔

ٹانگ لینا۔ (۱) عمارت (۱) ٹانگ پکڑنا (۲) کہتے کا کاسنے کے لیے پکنا۔
 (۳) پیچھے پڑنا۔ سر ہونا۔
ٹانگ مارنا۔ (۱) عمارت کشتی رٹنے میں ٹانگ کا دائیں کرنا۔
ٹانگوں کا جواب دے دینا۔ (۱) عمارت آگے چلنے کی طاقت نہ رہنا۔
 اتنی زیادہ تکلن ہونا جو قابل برداشت نہ ہو۔ ٹھک جانا۔
ٹانگوں میں ٹانگیں ڈال کر سونا۔ (۱) عمارت ہم نعلن ہو کر سونا۔
ٹانگوں میں منہ ڈال کے چولہے کے آگے نام لینا۔ (۱) عمارت عورتیں
 کسی کو ہانپنے بلانے کے لئے یہ ٹونگا کرتی ہیں۔
ٹانگیں لوٹنا۔ (۱) عمارت بہت زیادہ دوڑھاگ کرنا۔ پریشان کرنا (۲)
 بہت زیادہ دوڑتے پھرتا پریشان ہونا۔
ٹانگیں لوٹنا۔ (۱) عمارت ٹھک کر چھڑ ہو جانا۔ چلنے کی طاقت نہ رہنا۔
ٹانگیں رہ سانا۔ (۱) عمارت (۱) ٹھک کر چھڑ ہو جانا (۲) سونکھے کی بیماری کی
 روہ سے ٹانگیں بیکار ہو جانا۔
ٹانگیں لینا اٹھانا۔ (۱) عمارت جماع کا قصد کرنا۔
ٹانگ پڑی۔ (ٹانگ۔ پڑی) (۱) عمارت (۱) ٹانگ۔
ٹانگ پھاڑی ٹوٹ۔ (۱) عمارت پھاڑی ٹوٹ۔
ٹانگنا۔ (ٹانگ۔ نا) (ہ۔ مین) (۱) ٹانگنا۔ آویزاں کرنا (۲) چھانی دینا۔ چھانی
 پر چڑھانا۔
ٹاور۔ (Tower) (ٹاور) (انگ۔ ۱۔ مذ) برج۔ مینار۔ لاٹھ۔
ٹائپ۔ (Type) (ٹا۔ پ۔ ای) (انگ۔ ۱۔ مذ) (۱) چھاپے کے ڈھلے
 ہوتے حروف جو سیسے کے ہوتے ہیں (۲) چھاپا (۳) وضع۔ نمونہ۔
 نقشہ۔ صورت۔
ٹائپ رائٹر۔ ٹائپ کرنے والی مشین۔
ٹائپسٹ۔ (Typist) (ٹا۔ پیسٹ) (انگ۔ ۱۔ مذ) ٹائپ کرنے والا۔
ٹائپ رائٹر پر کام کرنے والا۔
ٹائٹل۔ (Title) (ٹا۔ جو تیل) (انگ۔ ۱۔ مذ) (۱) عنوان (۲) سرخی۔
 (۳) پیشانی۔ سرورق۔ سرورق کا مضمون (۴) کتاب وغیرہ کا نام۔
 (۵) القاب۔ خطاب۔ منصب۔ عہدہ۔
ٹائر۔ (Tyre) (ٹا۔ یر) (انگ۔ ۱۔ مذ) موٹریا یا ٹائیسکل کے پہیوں پر
 چڑھانے کا ربر۔ (۲) ربر کا نول جس کے اندر ٹیوب ہوتی ہے۔
ٹائل۔ (Tile) (ٹا۔ ال) (انگ۔ ۱۔ مٹ) کچی مٹی یا پتلی مٹی۔ رنگین یا
 سیند جو عمارت کی دیواروں اور فرش یا چھت پر لگائی جاتی ہے۔
ٹائم۔ (Time) (ٹا۔ ام) (انگ۔ ۱۔ مذ) (۱) وقت (۲) گھڑی کو بھی ٹائم کہہ
 دیتے ہیں (۳) بنکاری کی اصطلاح پوری مدت پورا وقفہ۔ پوری میعاد
 بمعاد مطوق۔ مدت لازمی۔
ٹائم بم۔ (Time Bomb) ایسا بم جو ہر ترہ وقت پر پھٹے۔
ٹائم پیکس۔ (Time Piece) جھوٹا ٹھنڈہ۔
ٹائم ٹیبل۔ (Time Table) نقشہ تقسیم اوقات۔ نظام الاوقات۔
ٹائم کیپٹر۔ وقت کا حساب رکھنے والا (مزدوروں یا ملازموں کا)

ٹلم کا اندیشہ ہو۔
 ٹسٹروں ٹول - (ٹسٹ - رول - ٹول) (۱-۱) مذ (۱) فاختہ اور ٹوٹروں کی آوازیں۔
 (صفت) (۲) اکیلا - تنہا۔
 ٹسٹروں ٹول رہ جانا - (۱-محاورہ) اکیلا رہ جانا اور کوئی باس نہ ہونا۔
 ٹسٹری - (ٹسٹ - بری) (۱-۱) امت (۱) کھوپڑی - چندیا (۲) ٹٹی - ڈھا پنجرہ۔
 ٹسٹری پر بچ رہی ہے - (۱-مض) کسی کام میں دشواری پیش آنا۔
 ٹسٹری محرم کر دینا یا پھینٹ دینا - (۱-محاورہ) (۱) بہت مارنا (۲) حیثیت سے زیادہ خرچ کر دینا۔
 ٹسٹری کلنا - (۱-محاورہ) ڈبلا یا لاغر ہونا (۲) روپیہ زیادہ خرچ کرنا۔
 ٹسٹری کھینچنی ہونا - (۱-محاورہ) (۱) بہت پٹنا (۲) مخلص ہونا۔
 ٹسٹری موندنا - (۱-محاورہ) سر موڑنا - حماقت کرنا - دھوکے یا فریب سے خوب ٹوٹنا۔
 ٹسٹری - (ٹسٹ - ٹ - بری) (۱-۱) مذاق - ٹھٹھا - مزاح (۲) جھوٹ - دروغ گوئی (۳) عقارہ - دھونسا۔
 ٹسٹکارنا - (ٹسٹ - کارنا) (۱-۱) مذ (۱) ٹٹ خانرا (۲) اڑ لگانا - لگھوڑے یا گدھے کو چلانے کے لیے منہ سے آواز نکالنا۔
 ٹسٹ کاری - (ٹسٹ - کاری) (۱-۱) مذ (۱) ٹٹ خاری - وہ آواز جو جانوروں کو کھانچتے وقت منہ سے نکالتے ہیں (۲) زبانی جمع خرچ (۳) اشارہ - ہستی - آواز۔
 ٹسٹ کاری پر لگنا - (۱-محاورہ) (۱) آواز پر لگنا - اشارے پر یا بیٹی کی طرح آواز پر آنا (۲) مانوس ہونا - بل جانا (۳) مطیع ہونا - تابع ہوجانا۔
 ٹسٹ - (ٹسٹ - ٹول) (۱-۱) مذ (۱) چھوٹے قد کا گھوڑا - ٹائیرنڈور - طاقت - قابو۔
 ٹسٹو بڑھانا - (۱-محاورہ) جانا - چلے جانا۔
 ٹسٹو بھگڑنا - (۱-محاورہ) گھوڑے کا گھوڑی دکھ کر پھلنا - گودنا (۲) گھوڑے کا ڈر بھاگ جانا (۳) استاد کی یا خواہش جماع ہونا۔
 ٹسٹو پار ہونا - (۱-محاورہ) کامیابی ہونا - مقصد حاصل ہوجانا - بیڑا پار ہونا۔
 ٹسٹو سے - بلا سے (۱) لڑواری کا اظہار۔
 ٹسٹو کو گھوڑا اور تازی کو اشارہ - (۱) اشارہ، ٹسٹو کو چلانے کے لیے اس پر گھوڑے برسانے پڑتے ہیں۔ لیکن تازی گھوڑا اشارہ پر چلتا ہے مطلب یہ ہے کہ عقلمند اشارے پر کام کرتا ہے۔ بے وقوف کو مار کر سمجھانا پڑتا ہے۔
 ٹسٹو - (ٹسٹ - ٹ) (۱-۱) مذ (۱) ٹسٹو کی تصغیر (۲) ڈبلا کمزور اور حقیر۔
 ٹسٹوانی - (ٹسٹ - وانی) (۱-۱) مذ (۱) ٹسٹو کی مادہ - جھوٹے قد کی گھوڑی۔
 ٹسٹول - (ٹسٹ - ٹول) (۱-۱) مذ (۱) تلاش - ڈھونڈ - ٹسٹول۔
 ٹسٹول دیکھنا - (۱-محاورہ) (۱) ڈھونڈ لینا - تلاش کر لینا (۲) آزمائنا۔
 ٹسٹول کر لینا۔
 ٹسٹول کرنا - (۱-محاورہ) جہان بین کرنا - تلاش کرنا - ڈھونڈنا۔
 ٹسٹول ہونا - (۱-محاورہ) تلاش ہونا - ڈھونڈنا یا پڑنا۔

ٹسٹولنا - (ٹسٹ - ٹول - نا) (۱-۱) مذ (۱) ہاتھ سے چھو کر معلوم کرنا - بے دیکھے ڈھونڈنا
 (۲) عذر لینا - خفیہ خفیہ دریافت کرنا (۳) مالی حیثیت کا اندازہ لگانے کی کوشش کرنا (۴) پرکھنا - آزمائنا۔
 ٹسٹولوں - (ٹسٹ - ٹول - وال) (۱-۱) مذ (۱) تابع فعل (۲) اصل سے - انداز سے۔
 ٹسٹولی - (ٹسٹ - ٹولی) (۱-۱) مذ (۱) بانس یا سرکنڈوں کا بنا ہوا چھپرہ - جو دروازوں یا کھڑکیوں پر لگاتے ہیں یا جن پر بیلیں پڑھاتے ہیں (۲) آڑ - پردہ - اوٹ
 حجاب (۳) یا خانہ - بیت الخلاء (۴) شکار کھیلنے کی اوٹ یا بڑبڑے شکاری لوگ ساتھ رکھتے ہیں (۵) بانس کا ٹھاڑ جس پر چراغ رکھ کر روشنی کرتے ہیں (۶) بانس کی چھپوٹی کی دیوار جسے مناسب مقامات پر لگھڑا کر کے اس پر آتش بازی رکھتے ہیں (۷) باغ یا چمن کے سرے پر ہندی وغیرہ کا بھاڑ
 (۸) بیاہ شادی کے موقع پر جو بچپول وغیرہ سجا کر لے جاتے ہیں - (۹) ٹسٹولی ڈاڑھی۔

ٹسٹولی آنا - یا خانہ جانے کی ضرورت ہونا - یا خانہ آنا۔
 ٹسٹولی باندھنا - بانس یا سرکنڈوں کا چھوٹا ٹھاڑ بنا کر کہیں لگانا۔
 ٹسٹولی بندھنا - (۱-محاورہ) جمع ہونا - ٹوٹوں کا اکٹھا ہوجانا۔
 ٹسٹولی جانا - (۱-محاورہ) یا خانہ کرنے کے لیے بیت الخلاء کے اندر جانا۔
 ٹسٹولی کا آئینہ - (۱-۱) مذ (۱) ایک قسم کا تیلہ قلعی دار شیشہ۔
 ٹسٹولی کسنا - (۱-محاورہ) ہندی کی یا ڈھک کو تراش کر اس کی سطح برابر کرنا۔
 ٹسٹولی کی آڑ - ٹھاڑ کا پردہ یا اوٹ یا حجاب۔
 ٹسٹولی کی آڑ (اوٹ یا اوٹھل) شکار کرنا (دیکھنا) - (۱-محاورہ) کسی پر نیک کام کے پردے میں کوئی بڑا کام یا قابل اعتراض حرکت کرنا۔
 ٹسٹولی کی اوٹ ٹھیکنا - (۱-محاورہ) پردے یا آڑ کے پیچھے بیٹھنا (۲) کہیں گاہ میں بیٹھنا (۳) کوئی کام خفیہ طور پر کرنا۔
 ٹسٹولی لگانا - (۱-محاورہ) (۱) قاتل کھڑی کرنا (۲) پردہ ڈالنا (۳) ہاتھ لگانا
 ٹسٹولی میں چھید کرنا - (۱-محاورہ) کھل کھیلنا - عورت کا بدکار بن جانا۔
 ٹسٹولی - (ٹسٹ - یا) (۱-۱) مذ (۱) کبھی تخیر کے طور پر بھی کہتے ہیں (۲) ٹٹائی کی تصغیر۔
 (تخیر کے طور پر)

ٹسٹیری - (ٹسٹ - بری) (۱-۱) مذ (۱) ایک برند جس کی آواز اس لفظ جیسے نکلتی ہے۔ اپریل اور مئی کے مہینوں میں اندے دیتی ہے۔ اپنی مہینوں میں اس کی آواز بھی سنائی دیتی ہے (۲) ایک کھلونا جس کو پکڑ دینے سے ٹسٹیری بیسی آواز نکلتی ہے (۳) (رکنا) (۱) لاغر آدمی۔
 ٹسٹیری سے آسمان نہیں ٹھٹھا - کہیں ٹسٹیری سے آسمان ٹھٹھے گا۔
 (ٹھٹھے جائے گا) - (۱) مذ (۱) جب کوئی اپنی طاقت یا حیثیت یا بساط سے زیادہ کام کرنے کی کوشش کرے تو اس کے لیے یہ مثل کہی جاتی ہے (مٹو ہے کہ ٹسٹیری اپنی ٹانگیں اڈ پر اٹھا کر سوتی ہے تاکہ آسمان گرے تو ان پر سنبھال لے۔

ٹ - ٹ - ٹ

ٹپا - (ٹپ - چا) (۱-۱) صفت (۱) اوجھا - کم ظرف - چھپورا - کم ہمت (۲) ٹپا - ۳۱۳

ردو لفنگا۔ کیسٹن۔ بیہودہ۔ پاجی۔
پچی۔ (د۔ صف) پچی کامونٹ۔

ٹ۔ خ

ٹنجا سے دیدے گھٹنا۔ (اڑ۔ مس) آٹھیں پوری کھلی ہونا۔
ٹنچ۔ (د۔ ا۔ منٹ) وہ آواز جو گھوڑے یا گدھے کو چلانے میں سُننے سے نکلتی
ٹنچا۔ ٹنچا۔ ٹنچا۔ ٹنچا۔
ٹنچا۔ (د۔ ا۔ منٹ) وہ آواز جو گھوڑے یا گدھے کو چلانے میں سُننے سے نکلتی
ٹنچا۔ (د۔ ا۔ منٹ) وہ آواز جو گھوڑے یا گدھے کو چلانے میں سُننے سے نکلتی
ٹنچا۔ (د۔ ا۔ منٹ) وہ آواز جو گھوڑے یا گدھے کو چلانے میں سُننے سے نکلتی

ٹ۔ و

ٹڈا۔ (د۔ ا۔ منٹ) ایک قسم کا پر دار کڑا جو گھاس میں اور آگ کے
دوخت پر ہوتا ہے (۲) (مزان) ڈبلا پتلا آدی۔
ٹڈی۔ (ڈ۔ ڈی) (د۔ ا۔ منٹ) ایک قسم کا پر دار کڑا جو درختوں اور فصلوں کو
نقصان پہنچاتا ہے۔
ٹڈی ڈل۔ اڑتی ہوئی ٹڈیوں کی اتنی بھاری تعداد جس کا شمار نہ ہو سکے
ٹڈیوں کا بھاری لشکر (۲) لوگوں کا جو ہم بیٹھ جھاڑ
ٹڈی کا آنا کال کی نشانی۔ (دشیل) ٹڈی آئے تو سمجھ لو کہ قحط پڑے گا کیونکہ
وہ کھیتوں کو کھا جاتی ہے۔ ہر آفت کے آثار پہلے سے نظر آ جاتے ہیں۔

ٹ۔ ر

ٹر۔ (د۔ ا۔ منٹ) (۱) زور کی آواز۔ (۲) میٹنگ کی آواز (۳) بکواس۔ بیہودہ
بات (۴) ہنٹ۔ چند اکھڑتوں (۵) عید کے دوسرے دن کا میلہ (۶)
شین۔ خود ستائی (۷) خوشی کی آواز (۸) گستاخی۔ ٹرائن (د۔ ا۔ منٹ) بڑی
قسم کا جگلا (صف) (۱۰) بے وقوف۔ احمق۔ کم ذہن (۱۱)
ٹر یا ٹنگنا۔ (۱۱) (مادہ) (۱) شینی مارنا (۲) بیہودہ بکنا۔
ٹرا۔ (د۔ ا۔ منٹ) (د۔ ا۔ منٹ) (۱) بک بک کرنے والا (۲) اکھڑ۔ گستاخ
ٹرا۔ (د۔ ا۔ منٹ) (د۔ ا۔ منٹ) (۱) بک بک کرنے والا (۲) اکھڑ۔ گستاخ
ٹرا۔ (د۔ ا۔ منٹ) (د۔ ا۔ منٹ) (۱) بک بک کرنے والا (۲) اکھڑ۔ گستاخ
ٹرا۔ (د۔ ا۔ منٹ) (د۔ ا۔ منٹ) (۱) بک بک کرنے والا (۲) اکھڑ۔ گستاخ
ٹرا۔ (د۔ ا۔ منٹ) (د۔ ا۔ منٹ) (۱) بک بک کرنے والا (۲) اکھڑ۔ گستاخ

یامباحثہ کے مقابلے میں جیتا ہوا بڑا کپ۔
ٹرائی۔ (Trolley) (د۔ ا۔ منٹ) (۱) ٹھیلہ۔ گاڑی
پیسری دالوں کا ٹھیلہ (۲) وہ پھر کی جس سے بکلی کے تار لگا کر ٹرام
وغیرہ چلاتے ہیں (۳) وہ گاڑی جو ریل کی پیٹری پر چلاتے ہیں۔
(۴) وہ پہیہ دار میز جس پر چائے کا سامان اور پھل وغیرہ رکھے
جاتے ہیں۔

ٹران۔ (د۔ ا۔ منٹ) (۱) بک بک کرنا۔ ٹر کرنا (۲) غل چننا (۳)
گستاخی کرنا (۴) میٹنگ کا آواز نکالنا۔
ٹرانس پورٹ۔ (Transport) (د۔ ا۔ منٹ) (۱) رانس۔ پور۔ (د۔ ا۔ منٹ)
(۱) بک بک کرنا۔ (۲) بار برادری۔ نقل و حمل۔ سامان ایک جگہ سے
دوسری جگہ لے جانا۔

ٹرانس فارمر۔ (Transformer) (د۔ ا۔ منٹ) (۱) رانس۔ فار۔ (۲) (انگ) اینٹا
برقی رو کی طاقت کو گھٹانے بڑھانے والی مشین۔
ٹرانسفر۔ (Transfer) (د۔ ا۔ منٹ) (۱) رانس۔ فر۔ (۲) (انگ) اینٹا
(۳) ایک چیز کو دوسری چیز پر اتارنا۔

ٹرانس لیٹر۔ (Translator) (د۔ ا۔ منٹ) (۱) رانس۔ لے۔ (۲) (انگ) اینٹا
ترجمہ کرنے والا۔ مترجم۔
ٹرانس لیشن۔ (Translation) (د۔ ا۔ منٹ) (۱) رانس۔ لے۔ (۲) (انگ) اینٹا
ترجمہ۔

ٹرانس میٹ۔ (Transmit) (انگ) (د۔ ا۔ منٹ) ارسال کرنا۔ منتقل
کرتا۔ پیغام پہنچانا۔
ٹراؤٹ۔ (Trout) (د۔ ا۔ منٹ) (انگ) (د۔ ا۔ منٹ) ایک قسم کی
خوش ذائقہ مچھلی۔
ٹرائی سیکل۔ (Tricycle) (د۔ ا۔ منٹ) (۱) رانس۔ ای۔ سیکل (۲) (انگ) (د۔ ا۔ منٹ)
تین پہیوں کی گاڑی جو بائیسکل کی طرح چلائی جاتی ہے۔

ٹربائن۔ (Turbine) (د۔ ا۔ منٹ) (انگ) (د۔ ا۔ منٹ) (۱) رانس۔ با۔ (۲) (انگ) (د۔ ا۔ منٹ)
جو پانی بجلی یا بھاپ سے چلتا ہے۔
ٹربینگا۔ (Turbine) (د۔ ا۔ منٹ) (انگ) (د۔ ا۔ منٹ) (۱) رانس۔ با۔ (۲) (انگ) (د۔ ا۔ منٹ)
جو پانی بجلی یا بھاپ سے چلتا ہے۔

ٹریپ۔ (Trip) (د۔ ا۔ منٹ) (انگ) (د۔ ا۔ منٹ) (۱) رانس۔ با۔ (۲) (انگ) (د۔ ا۔ منٹ)
جو پانی بجلی یا بھاپ سے چلتا ہے۔
ٹریپ۔ (Trip) (د۔ ا۔ منٹ) (انگ) (د۔ ا۔ منٹ) (۱) رانس۔ با۔ (۲) (انگ) (د۔ ا۔ منٹ)
جو پانی بجلی یا بھاپ سے چلتا ہے۔
ٹریپ۔ (Trip) (د۔ ا۔ منٹ) (انگ) (د۔ ا۔ منٹ) (۱) رانس۔ با۔ (۲) (انگ) (د۔ ا۔ منٹ)
جو پانی بجلی یا بھاپ سے چلتا ہے۔

ٹیکے کا کام کرنا۔ (۱۔ عمارہ) ایسا کام کرنا جس کا معاوضہ بہت تھوڑا ہو (۲۔ صرف وہ کام کرنا جس میں کچھ ملے۔

ٹیکے کی ادوات - (۱۔ نشت) منگنی - غزبی - جھوٹی حیثیت۔ ٹیکے کی بڑھیا نوٹھے سر منڈانی۔ (۱۔ ش) سستی چیز یا تھوڑے فائدے کے لیے بہت زحمت کرنا۔

ٹیکے کی عمرنی چھوٹے محصول - رش) دیکھے ٹیکے کی بڑھیا نوٹھے سر منڈانی۔ ٹیکے کی ہناری میں ٹاٹ کا ٹکڑا - (رشل) تھوڑے یا کم دام خرچ کر کے اچھی چیز حاصل نہیں کی جا سکتی (۲) جب تک قسمت ساتھ نہ دے فائدہ نہیں ہوتا ایک شخص نے ہناری منگوائی۔ اس میں ٹاٹ کا ٹکڑا نکلا۔ اس نے ملازم سے کہا تو اس نے جواب دیا کہ ٹیکے کی ہناری میں سے کیا زر بخت کا ٹکڑا نکلا (۹)۔

ٹیکے کے واسطے مسجد ڈھانا - (۱۔ عمارہ) بہت تھوڑے فائدے کے لیے ایک نامستول یا قابل اعتراض حرکت کرنا۔

ٹیکے کرنی - (۱۔ نصف) بہت سستی معاوضے گری ہوئی۔ ٹیکے کرنی چال چلنا - (۱۔ عمارہ) (۱) گھٹیت سے کام لینا۔ کم خرچ کرنا۔ (۲) میانہ روئی اختیار کرنا (۳) عیاری اور چالاک کرنا۔

ٹیکے والی - (۱۔ مٹ) سستی قسم کی ناش - زندی۔ بنگار ہینا - (۵۔ بھس) اپنی جگہ نہ چھوڑنا (۲) سہاڑے سے کھڑا ہونا - (۳) کسی جگہ بھرا ہونا۔

ٹیکنا - (ٹ۔ کا۔ نا) وہ (بھس) کسی چیز کو کسی دوسری چیز کے سہارے کھڑا کرنا یا رکھنا (۲) کسی چیز کا ٹیکنا لینا یا اسے ٹیکنا بنانا (۳) مکان یا ہوٹل وغیرہ میں بھڑانا (۴) مارنا یا لگانا (۵) سہارا لینا۔

ٹیکانی - (ٹ۔ کا۔ نی) وہ - (۱۔ مٹ) وہ لکڑی جو گاڑی میں اس لیے لگاتے ہیں کہ جیسے کے ڈنڈوں کی بھونک سنبھالے۔

ٹیکارڈ - (ٹ۔ کا۔ ا) (۱۔ مٹ) (۱) قیام (۲) سکونت (۳) بھڑاؤ (۴) پاڈاری۔ ٹیکارڈ - (ٹ۔ کا۔ ا) (۱۔ مٹ) (۱) قیام (۲) سکونت (۳) بھڑاؤ (۴) پاڈاری۔

ٹیکائی - (ٹ۔ کا۔ ای) وہ - (۱۔ مٹ) (۱) قیام کرنے - رکھنے یا بھرنے کا کاروبار ٹیکٹ (Ticket) - ٹ۔ کاٹ - (۱۔ مٹ) (۱) کاغذ کا ڈسٹنٹیل ٹکڑا جو کسی چیز کے دام یا کرایہ لے کر بطور رسد دیا جائے اور جسے دکھا کر کہیں داخل ہوا جائے یا بس یا ٹریم یا ریل گاڑی میں سوار ہوا جائے (۲) تاکوں کا پتہ (۳) ڈاک کا شامب (۴) اجازت نامہ (۵) پاس۔ پاسپورٹ لیسل - بیج (۶) نمبر یا نام کی آہنی تختی (۷) سوداگری کے مال کا پرچہ جس پر کارخانے کا نام لکھا ہوتا ہے (۸) الیکشن میں بطور امیدوار کھڑے ہونے کے لیے پارٹی کی طرف سے اجازت نامہ۔

ٹیکٹ چسپال - ٹیکٹ دار - جس پر ڈاک کے ٹکٹ لگے ہوں ٹیکٹ ٹک کرنا - (تی۔ بھس) گھوٹنا۔

ٹیکٹلی - (ٹ۔ بھگ - ٹ۔ کی) وہ - (۱۔ مٹ) (۱) لکڑی یا لوہے کا ایک ڈھا پیر جس کے ساتھ جرموں کے ہاتھ پاؤں باندھ کر کوڑے یا بیدارتے ہیں - وہ تین لکڑیاں جن سے ملازم کو باندھ کر سڑانے تازیاں دیتے ہیں (۲) چسپالی (۳) تھاک - نظر - نظارہ - دونوں ٹکسور اور مفتوح دونوں طرح

ٹیکٹی آتی ہیں -

ٹیکٹلی باندھنا (لگانا) - (۱۔ عمارہ) کسی کی طرف برابر دیکھے جانا۔ گھورتے رہنا۔ ٹیکے جانا - ٹیک جھپکائے بغیر دیکھے جانا۔ آنکھیں لڑانا۔ ٹیکٹلی پر کھڑا کرنا - (۱۔ عمارہ) سرخوں کی لڑائی میں کوئی بہادر مرخ دشمن کی ضرب سے مر جاتا ہے مگر میدان سے نہیں ہٹتا تو اس وقت زمین میں تین لکڑیاں گاڑ کر اس مرخ کی لاش ان لکڑیوں پر رکھ دیتے ہیں اور زندہ مرخ کو لاش پر لاکھڑا کرتے ہیں۔ اگر وہ لاش مار کر لاش کو ٹیکٹلی سے نیچے گرا دے تو قطعی طور پر فارج مان لیا جاتا ہے لیکن اگر بھاگ نکلے تو بازی ہار جاتا ہے۔

ٹیکٹلی سے باندھنا - (۱۔ عمارہ) تپائی یا لکڑیوں کے ساتھ باندھ کر مارنا۔ ٹیکٹلی کوڑے لگانا۔

ٹیکٹلی لگنا - ٹیکٹلی لگ جانا - (۱۔ عمارہ) نظر جانا۔ نظر لڑنا۔ غور سے دیکھنا۔ ٹیک جانا - (۵۔ بھس) لڑنا۔ بھڑانا (۲) کسی بگھ عارضی قیام کرنا (۳) مبر کرنا۔ ٹیکٹ کر - (ٹ۔ بھگ - ٹ۔ کی) (۱۔ مٹ) (۱) تصادم - دو چیزوں کا آپس میں لڑ جانا (۲) دھکا دھکا کرنا (۳) صدمہ (۴) پیشانی پر پیشانی مارنا (۵) نقصان - ٹھٹا (۵) ہراسہ - ہراسہ برآمد (۶) مقابلہ - مقابلہ جھڑپ (۷) برابری - ہمت - ہمت - ٹیکٹ لگانا - ٹیکٹ بھیلنا - (۱۔ عمارہ) (۱) چوٹ ہینا - مار برداشت کرنا - سختیاں اٹھانا (۲) نقصان یا مصیبت برداشت کر لینا (۳) زبردست سے ٹیکٹ مقابلہ کرنا (۴) ڈراوے میں نہ آنا۔

ٹیکٹ کھانا - (۱۔ عمارہ) (۱) لڑ جانا - ٹیکٹ کھانا (۲) ٹیکٹ بھڑپا (۳) لڑکھڑانا۔ (۴) کسی سے مقابلہ کرنا (۵) چوٹ کھانا - مقابلے کا ہونا - ہم پلہ ہونا۔

ٹیکٹ لڑنا - (۱۔ عمارہ) کسی سے ٹیکٹ لڑنا - اپنی پیشانی دوسرے کی پیشانی پر مارنا۔ ٹیکٹ لگانا - (۱۔ عمارہ) (۱) پیشانی پر پیشانی مارنا (۲) در - دیوار یا ستون وغیرہ پر پیشانی مارنا (۳) سر سے ضرب لگانا۔ صدمہ یا تھکنا۔

ٹیکٹ لگانا - (۱۔ عمارہ) کسی چیز سے ٹیکٹ لگانا (۲) صدمہ یا تھکنا۔ ٹیکٹ لگانا - (۱۔ عمارہ) کسی چیز سے ٹیکٹ لگانا (۲) صدمہ یا تھکنا۔ ٹیکٹ لگانا - (۱۔ عمارہ) کسی چیز سے ٹیکٹ لگانا (۲) صدمہ یا تھکنا۔ ٹیکٹ لگانا - (۱۔ عمارہ) کسی چیز سے ٹیکٹ لگانا (۲) صدمہ یا تھکنا۔

ٹیکٹ لگانا - (۱۔ عمارہ) کسی چیز سے ٹیکٹ لگانا (۲) صدمہ یا تھکنا۔ ٹیکٹ لگانا - (۱۔ عمارہ) کسی چیز سے ٹیکٹ لگانا (۲) صدمہ یا تھکنا۔ ٹیکٹ لگانا - (۱۔ عمارہ) کسی چیز سے ٹیکٹ لگانا (۲) صدمہ یا تھکنا۔ ٹیکٹ لگانا - (۱۔ عمارہ) کسی چیز سے ٹیکٹ لگانا (۲) صدمہ یا تھکنا۔

ٹیکٹ لگانا - (۱۔ عمارہ) کسی چیز سے ٹیکٹ لگانا (۲) صدمہ یا تھکنا۔ ٹیکٹ لگانا - (۱۔ عمارہ) کسی چیز سے ٹیکٹ لگانا (۲) صدمہ یا تھکنا۔ ٹیکٹ لگانا - (۱۔ عمارہ) کسی چیز سے ٹیکٹ لگانا (۲) صدمہ یا تھکنا۔ ٹیکٹ لگانا - (۱۔ عمارہ) کسی چیز سے ٹیکٹ لگانا (۲) صدمہ یا تھکنا۔

ٹیکٹ لگانا - (۱۔ عمارہ) کسی چیز سے ٹیکٹ لگانا (۲) صدمہ یا تھکنا۔ ٹیکٹ لگانا - (۱۔ عمارہ) کسی چیز سے ٹیکٹ لگانا (۲) صدمہ یا تھکنا۔ ٹیکٹ لگانا - (۱۔ عمارہ) کسی چیز سے ٹیکٹ لگانا (۲) صدمہ یا تھکنا۔ ٹیکٹ لگانا - (۱۔ عمارہ) کسی چیز سے ٹیکٹ لگانا (۲) صدمہ یا تھکنا۔

ٹیکٹ لگانا - (۱۔ عمارہ) کسی چیز سے ٹیکٹ لگانا (۲) صدمہ یا تھکنا۔ ٹیکٹ لگانا - (۱۔ عمارہ) کسی چیز سے ٹیکٹ لگانا (۲) صدمہ یا تھکنا۔ ٹیکٹ لگانا - (۱۔ عمارہ) کسی چیز سے ٹیکٹ لگانا (۲) صدمہ یا تھکنا۔ ٹیکٹ لگانا - (۱۔ عمارہ) کسی چیز سے ٹیکٹ لگانا (۲) صدمہ یا تھکنا۔

ٹیکٹ لگانا - (۱۔ عمارہ) کسی چیز سے ٹیکٹ لگانا (۲) صدمہ یا تھکنا۔ ٹیکٹ لگانا - (۱۔ عمارہ) کسی چیز سے ٹیکٹ لگانا (۲) صدمہ یا تھکنا۔ ٹیکٹ لگانا - (۱۔ عمارہ) کسی چیز سے ٹیکٹ لگانا (۲) صدمہ یا تھکنا۔ ٹیکٹ لگانا - (۱۔ عمارہ) کسی چیز سے ٹیکٹ لگانا (۲) صدمہ یا تھکنا۔

ٹیکٹ لگانا - (۱۔ عمارہ) کسی چیز سے ٹیکٹ لگانا (۲) صدمہ یا تھکنا۔ ٹیکٹ لگانا - (۱۔ عمارہ) کسی چیز سے ٹیکٹ لگانا (۲) صدمہ یا تھکنا۔ ٹیکٹ لگانا - (۱۔ عمارہ) کسی چیز سے ٹیکٹ لگانا (۲) صدمہ یا تھکنا۔ ٹیکٹ لگانا - (۱۔ عمارہ) کسی چیز سے ٹیکٹ لگانا (۲) صدمہ یا تھکنا۔

ٹیکٹ لگانا - (۱۔ عمارہ) کسی چیز سے ٹیکٹ لگانا (۲) صدمہ یا تھکنا۔ ٹیکٹ لگانا - (۱۔ عمارہ) کسی چیز سے ٹیکٹ لگانا (۲) صدمہ یا تھکنا۔ ٹیکٹ لگانا - (۱۔ عمارہ) کسی چیز سے ٹیکٹ لگانا (۲) صدمہ یا تھکنا۔ ٹیکٹ لگانا - (۱۔ عمارہ) کسی چیز سے ٹیکٹ لگانا (۲) صدمہ یا تھکنا۔

ٹیکٹ لگانا - (۱۔ عمارہ) کسی چیز سے ٹیکٹ لگانا (۲) صدمہ یا تھکنا۔ ٹیکٹ لگانا - (۱۔ عمارہ) کسی چیز سے ٹیکٹ لگانا (۲) صدمہ یا تھکنا۔ ٹیکٹ لگانا - (۱۔ عمارہ) کسی چیز سے ٹیکٹ لگانا (۲) صدمہ یا تھکنا۔ ٹیکٹ لگانا - (۱۔ عمارہ) کسی چیز سے ٹیکٹ لگانا (۲) صدمہ یا تھکنا۔

ٹیکٹ لگانا - (۱۔ عمارہ) کسی چیز سے ٹیکٹ لگانا (۲) صدمہ یا تھکنا۔ ٹیکٹ لگانا - (۱۔ عمارہ) کسی چیز سے ٹیکٹ لگانا (۲) صدمہ یا تھکنا۔ ٹیکٹ لگانا - (۱۔ عمارہ) کسی چیز سے ٹیکٹ لگانا (۲) صدمہ یا تھکنا۔ ٹیکٹ لگانا - (۱۔ عمارہ) کسی چیز سے ٹیکٹ لگانا (۲) صدمہ یا تھکنا۔

ٹیکٹ لگانا - (۱۔ عمارہ) کسی چیز سے ٹیکٹ لگانا (۲) صدمہ یا تھکنا۔ ٹیکٹ لگانا - (۱۔ عمارہ) کسی چیز سے ٹیکٹ لگانا (۲) صدمہ یا تھکنا۔ ٹیکٹ لگانا - (۱۔ عمارہ) کسی چیز سے ٹیکٹ لگانا (۲) صدمہ یا تھکنا۔ ٹیکٹ لگانا - (۱۔ عمارہ) کسی چیز سے ٹیکٹ لگانا (۲) صدمہ یا تھکنا۔

ٹیکٹ لگانا - (۱۔ عمارہ) کسی چیز سے ٹیکٹ لگانا (۲) صدمہ یا تھکنا۔ ٹیکٹ لگانا - (۱۔ عمارہ) کسی چیز سے ٹیکٹ لگانا (۲) صدمہ یا تھکنا۔ ٹیکٹ لگانا - (۱۔ عمارہ) کسی چیز سے ٹیکٹ لگانا (۲) صدمہ یا تھکنا۔ ٹیکٹ لگانا - (۱۔ عمارہ) کسی چیز سے ٹیکٹ لگانا (۲) صدمہ یا تھکنا۔

ٹکڑے کے کارن مارے مارے پھرنا۔ روٹی کھانے پیٹ بھرنے یا روزگار ڈھونڈنے کے لیے جا بجا پھرنے، بھیک مانگ کر گزارنا ٹکڑے لگانا۔ (۱) محاورہ، (۲) جسے بھڑانا (۳) جسے تھپتھپانا یا ساتان میں پانی طرن سے امانے کرنا۔

ٹکڑے دے (دے کے) بچھڑا بالا، سینک (لگے جب) لے کر مارن آیا۔ (دش) بچھڑے تو روٹی کے ٹکڑے کھلا کھلا کر ڈالیا، مگر جب اس کے سینک نکلے تو مارنے لگا۔ احسان فراموش انسان یا اس موقع پر کہتے ہیں جب کسی کو تنگی کے بدلے برائی ملے۔

ٹکڑے کھائے دن بہلائے۔ کپڑے پھٹے کھڑکوائے۔ (دش) یہ مثل نکلے اور کھٹو آدمی پر بھی جاتی ہے جو کمانے کے ارادہ سے گھر سے نکلے، مگر مانگ مانگ کر وقت گزارتا ہے اور جب تن کے کپڑے پھٹنے لگیں تو گھر واپس آجائے تو رنج پوچھی گانٹھ باندھنا۔ (دش) عقلمند بخوش کی عادت بیان کی ہے کہ اپنا خرچ دوسروں سے مانگ مانگ کر پورا کر لیتا ہے اور جو کچھ اس کے پاس ہوا ہے چھپا چھپا کر رکھتا ہے۔

ٹکڑے مانگ کھانا۔ پلوچی گانٹھ باندھنا۔ (دش) عقلمند بخوش کی عادت بیان کی ہے کہ اپنا خرچ دوسروں سے مانگ مانگ کر پورا کر لیتا ہے اور جو کچھ اس کے پاس ہوا ہے چھپا چھپا کر رکھتا ہے۔

ٹکڑے ٹکڑے (ٹکڑے ٹکڑے)۔ (دش) حیرت سے۔ تعجب سے۔

ٹکڑے ٹکڑے دم نہ کشدم۔ دیکھے ٹک ٹک دم نہ کشدم۔ ٹکڑے ٹکڑے دیکھنا۔ حیرت سے دیکھنا، حیرت باشوق سے دیکھنا۔

ٹکڑے ٹکڑے (ٹکڑے ٹکڑے)۔ (دش) شیشے کا یا آئینے کا ٹکڑا (۲) کپڑوں یا برتنوں کا ٹکڑا (۳) گروہ جماعت (۴) فون کا دستہ (۵) کپڑے کا ٹکڑا (۶) جواریلوں کا بیج (۷) پورن ماشی کا میلا۔

ٹکڑے ٹکڑے لگنا۔ (۱) محاورہ، جواریلوں کا ایک جگہ اکٹھے ہو کر جوا کھیلنا (۲) بیج ہونا۔

ٹکڑے ٹکڑے (ٹکڑے ٹکڑے)۔ (دش) کس (ڈانگ)۔ (۱) مذا لفظ ٹیکس (Tax) کی بگڑی ہوئی شکل، محصول، ٹکان، مال گذاری۔

ٹکڑے ٹکڑے (ٹکڑے ٹکڑے)۔ (دش) سال، (دش) (۱)۔ (۲) وہ جگہ جہاں بکٹے ڈھالے جائیں۔ (دش) دارالغریب۔

ٹکڑے ٹکڑے (ٹکڑے ٹکڑے)۔ (دش) وہ سکتے جو ٹکسال میں تیار نہ ہوا ہو (۲) وہ الفاظ جو مستند نہ ہوں مروج نہ ہوں، متروک ہوں۔ غیر معتبر ہوں (۳) وہ محاورات جو اہل زبان نہ بولتے ہوں (۴) وہ اہل فن جو کسی فن میں کسی استاد کا مل کا شاگرد نہ ہو (۵) وہ شخص جو ان پڑھا اور بدتمیز ہو۔

ٹکڑے ٹکڑے (ٹکڑے ٹکڑے)۔ (دش) (۱) محاورہ، (۲) روپے کا ٹکسال میں بننا یا پرکھا جانا۔ (۳) کسی علم یا فن میں کمال حاصل کر لینا۔ (۴) استاد مانا جانا (۵) بے حیائی میں بخت ہو جانا۔ بدنامی کی آغوش صبر پر جا پہنچنا۔

ٹکڑے ٹکڑے (ٹکڑے ٹکڑے)۔ (دش) (۱) وہ روپے جو ٹکسال میں ٹوٹ چھوٹ یا خراب ہو گیا ہو (۲) لاڈ سے خراب ہوا ہو۔ متروک بد معاش۔ عوامی۔

ٹکڑے ٹکڑے (ٹکڑے ٹکڑے)۔ (دش) (۱) محاورہ، بہت خرچ ہو جانا۔

ٹکڑے تلاش کرنا (۲) حیران دسر گردان پھرنا۔ ٹکڑے ٹکڑے (ٹکڑے ٹکڑے)۔ (دش) حیرت سے۔ حیرانی سے۔ حیرت سے۔ شوق سے دیکھنا۔

ٹکڑے ٹکڑے (ٹکڑے ٹکڑے)۔ (دش) (۱) محاورہ، (۲) حیرت سے۔ حیرانی سے۔ حیرت سے۔ شوق سے دیکھنا۔

ٹکڑے ٹکڑے (ٹکڑے ٹکڑے)۔ (دش) (۱) محاورہ، (۲) حیرت سے۔ حیرانی سے۔ حیرت سے۔ شوق سے دیکھنا۔

ٹکڑے ٹکڑے (ٹکڑے ٹکڑے)۔ (دش) (۱) محاورہ، (۲) حیرت سے۔ حیرانی سے۔ حیرت سے۔ شوق سے دیکھنا۔

ٹکڑے ٹکڑے (ٹکڑے ٹکڑے)۔ (دش) (۱) محاورہ، (۲) حیرت سے۔ حیرانی سے۔ حیرت سے۔ شوق سے دیکھنا۔

ٹکڑے ٹکڑے (ٹکڑے ٹکڑے)۔ (دش) (۱) محاورہ، (۲) حیرت سے۔ حیرانی سے۔ حیرت سے۔ شوق سے دیکھنا۔

ٹکڑے ٹکڑے (ٹکڑے ٹکڑے)۔ (دش) (۱) محاورہ، (۲) حیرت سے۔ حیرانی سے۔ حیرت سے۔ شوق سے دیکھنا۔

ٹکڑے ٹکڑے (ٹکڑے ٹکڑے)۔ (دش) (۱) محاورہ، (۲) حیرت سے۔ حیرانی سے۔ حیرت سے۔ شوق سے دیکھنا۔

ٹکڑے ٹکڑے (ٹکڑے ٹکڑے)۔ (دش) (۱) محاورہ، (۲) حیرت سے۔ حیرانی سے۔ حیرت سے۔ شوق سے دیکھنا۔

ٹکڑے ٹکڑے (ٹکڑے ٹکڑے)۔ (دش) (۱) محاورہ، (۲) حیرت سے۔ حیرانی سے۔ حیرت سے۔ شوق سے دیکھنا۔

ٹکڑے ٹکڑے (ٹکڑے ٹکڑے)۔ (دش) (۱) محاورہ، (۲) حیرت سے۔ حیرانی سے۔ حیرت سے۔ شوق سے دیکھنا۔

ٹکڑے ٹکڑے (ٹکڑے ٹکڑے)۔ (دش) (۱) محاورہ، (۲) حیرت سے۔ حیرانی سے۔ حیرت سے۔ شوق سے دیکھنا۔

ٹکڑے ٹکڑے (ٹکڑے ٹکڑے)۔ (دش) (۱) محاورہ، (۲) حیرت سے۔ حیرانی سے۔ حیرت سے۔ شوق سے دیکھنا۔

ٹکڑے ٹکڑے (ٹکڑے ٹکڑے)۔ (دش) (۱) محاورہ، (۲) حیرت سے۔ حیرانی سے۔ حیرت سے۔ شوق سے دیکھنا۔

ٹکڑے ٹکڑے (ٹکڑے ٹکڑے)۔ (دش) (۱) محاورہ، (۲) حیرت سے۔ حیرانی سے۔ حیرت سے۔ شوق سے دیکھنا۔

ٹکڑے ٹکڑے (ٹکڑے ٹکڑے)۔ (دش) (۱) محاورہ، (۲) حیرت سے۔ حیرانی سے۔ حیرت سے۔ شوق سے دیکھنا۔

ٹکڑے ٹکڑے (ٹکڑے ٹکڑے)۔ (دش) (۱) محاورہ، (۲) حیرت سے۔ حیرانی سے۔ حیرت سے۔ شوق سے دیکھنا۔

ٹ۔گ

ٹنگٹ - (ق۔ا۔ مذ) ورق۔
ٹنگھٹا - (گھ۔ لا۔ نا۔ وہ۔ مص) (ق) پھلانا۔ پتلا کرنا۔
ٹنگھٹا - (ٹ۔ کھل۔ نا۔ وہ۔ مص) (ق) گھٹا۔ پھلانا۔

ٹ۔ل

ٹل - (ا۔ فعل) ٹلنا مصدر کا صیغہ امر۔
ٹل جانا - (مص۔ مرکب) (۷) جگہ سے ہٹنا (۸) کسی کام سے باز رہنا (۳)
ادھر ادھر ہو جانا (۴) پتھم پوشی کرنا (۵) بیت جانا (۶) آہستہ آہستہ
ٹھک جانا۔
ٹلا - (ٹل۔ لا۔ وہ۔ ا۔ مذ) (۱) دھکا (۲) گھسا (۳) رگڑا۔ جماع کے وقت
ٹلنے کی ضرب۔
ٹلے ٹولسی - (ا۔ نشت) (۱) بے کاری (۲) بے فائدہ کام کرنا (۳) آوارگی۔
ٹلنا جائز کام۔
ٹلے ٹولسی کرنا - (۱) محاورہ (۱) بے کار پھرنا (۲) بے فائدہ کام کرنا (۳)
بے کاری خوش بدکرنا (۴) ناجائز خدمت کرنا۔
ٹلانا - (ٹل۔ لا۔ نا۔ وہ۔ مص) (۱) ہانے کرنا (۲) ہٹانا۔ سرکانا (۳) دیر کرنا۔
ٹھیل دینا (۴) منانے کرنا (۵) بہکانا۔

ٹٹب - (ٹ۔ ٹب۔ وہ۔ ا۔ مذ) (ق) پرزہ ٹکڑا۔ حصہ۔ ذرہ۔
ٹٹکھٹا - (ٹل۔ ٹ۔ لا۔ نا۔ وہ۔ مص) آواز کے ساتھ دست آگاہ (۲) ٹٹکھڑانا۔
(۳) ترسانا۔ لہجانا۔
ٹٹل ٹٹل کرنا - (وہ۔ مص) بدزبانی کرنا۔ گستاخی سے کلام کرنا۔ بک بک کرنا۔
ٹٹل جانا - (وہ۔ مص) (۱) ادھر ادھر ہو جانا (۲) گزر جانا (۳) بھاگ جانا (۴)
پتھم پوشی کرنا (۵) پتھم سے چلے جانا (۶) کسی کام سے باز رہنا۔
ٹٹکھٹا - (ٹ۔ ٹک۔ نا۔ وہ۔ مص) (۱) آہستہ آہستہ چلنا۔ سہج سہج چلنا (۲)
بڑھوں کی طرح لڑھکتے ہوئے چلنا (۳) پھل کا درخت سے گزرا (۴)
گزر جانا۔ مرجانا (۵) لہلہنا۔
ٹٹلم - (ٹل۔ لم۔ واز۔ صف) (۱) فضول۔ مہمل (۲) بے کار۔
ٹٹلنا - (ٹل۔ نا۔ وہ۔ مص) (۱) جگہ سے ہٹنا (۲) کسی کام سے باز رہنا (۳) بٹ
جانا (۴) چیلے پہانے سے ادھر ادھر ہو جانا (۵) کسی خاص وجہ سے
موت پر موجود نہ رہنا (۶) گزرا۔ بیتنا۔
ٹٹلوا - (ٹل۔ وا۔ وہ۔ ا۔ مذ) ٹال کا ٹالک یا چوکیدار۔
ٹٹلوا - (ٹل۔ وا۔ وہ۔ ا۔ مذ) (۱) ٹپٹھ (۲) اور ٹھیلی ٹکڑی (۳) استرا (۴) خوشامدی
(۵) چھوٹے تداکیچ پونج سا آدمی۔

ٹٹی لٹی - (ٹ۔ لی۔ ل۔ وہ۔ ا۔ مٹ) ہاتھ کی درمیانی انگلی دوسرے کو
چڑھانے کے لیے جاتے وقت پیلا چلا کر بلے ہیں۔ ٹٹی لٹی لٹی۔
ٹٹیا - (ٹل۔ یا۔ وہ۔ ا۔ مٹ) (ق) چوزہ۔ مرنے کا پتھر۔ چھوٹی مرنی (۲) طنز (۳)

ٹنگال والی - وہ طوائف جس کے ہاں دولت بہت ہو۔
ٹنگالی - (ٹنگ۔ سالی) (وہ۔ ا۔ مذ) ٹنگال کا دروغہ منٹ ماٹر (Mint)
(Master) (صفت) جس پر ٹنگال کی ضرب لگی ہوئی ہو۔ کھرا۔ درست۔
آزوردہ - جانی ہوا (۳) راج۔ مانا ہوا۔
ٹنگالی آدمی - (ا۔ مذ) ایما نثار۔ کھرا (طنز) بدعاش۔ چالاک۔ مکار۔
لے جا۔

ٹنگالی بات - (ا۔ مٹ) کھری۔ پکی۔ بچی۔ تلی بات۔
ٹنگالی روپیہ - (ا۔ نشت) وہ روپیہ جو ٹنگال میں بنا ہو۔ کھرا روپیہ۔
ٹنگالی (بولی) زبان - اہل زبان کی تسلیم کی ہوئی۔ فصیح اور مستند زبان
ٹنگلی - (ٹنگ۔ لی۔ وہ۔ ا۔ مٹ) (۱) ہاتھ کے کارک زلیور ٹیکہ (۲) دھات کا
چھوٹا سا گول ٹکڑا۔ چھوٹی سی روٹی۔
ٹنگ ٹنگ کرنا - (ق۔ مص) گھورنا۔ نظر جمائے دیکھنا۔
ٹنگٹا - (ٹنگ۔ نا۔ وہ۔ مص) (۱) ٹانگا جانا۔ سا جانا۔ بڑا جانا۔ پرویا جانا (۲)
گونا گونی میٹھ دینا (۳) کندریتی اور کندرین کا تیز ہونا۔
ٹنگٹا - (ٹنگ۔ نا۔ وہ۔ مص) (۱) ٹھنڈا۔ رکنا۔ وہ جانا۔ وقتی طور پر قیام کرنا۔
(۲) سہارے سے کھرا ہونا۔ تہ نشین ہونا۔

ٹنگوا - (ٹنگ۔ وا۔ وہ۔ ا۔ مذ) ایک اوزار جس سے چارہ کاٹتے ہیں۔
ٹنگوانا - (ٹنگ۔ وا۔ نا۔ وہ۔ مص) ٹانگنا کا متعدی متعدی
ٹنگور - (ٹ۔ کور۔ وہ۔ ا۔ مٹ) (۱) جھوسی یا ریت کی گرم پولی سے چوٹ
کو سینکنے کا عمل (۲) پٹلس (۳) چوٹ دھکا۔ ٹیس۔ ہلکے ضرب۔
(۴) نقارے کی آواز۔

ٹنگور کرنا - (مص۔ مرکب) چوٹ کو سینکنا۔
ٹنگورا - (ٹ۔ کورا۔ وہ۔ ا۔ مذ) (ق) ڈنگا۔ نسبت کی آواز۔
ٹنگورنا - (ٹ۔ کورنا۔ وہ۔ مص) سینکنا۔ پولی یا گرم کپڑے سے چوٹ

ٹنگورنا - (ٹ۔ کورنا۔ وہ۔ مص) سینکنا۔ پولی یا گرم کپڑے سے چوٹ
کو حرارت پہنچانا۔
ٹنگھانی - (ٹنگھ۔ ہا۔ ٹی۔ ڈکھ۔ یا۔ ٹی۔ وہ۔ ا۔ مٹ) ادنیٰ درجے
کی کسی گھٹیا قسم کی ٹنڈی۔

ٹنگلی - (ٹنگ۔ لی۔ وہ۔ ا۔ مٹ) (۱) ہلکیا چھوٹی سی روٹی (۲) تھوڑی آدنی۔
ٹنگلی - (محدود ذریعہ معاش (۳) پیچ۔ رسوخ۔ اثر۔
ٹنگلی لگانا - (۱) محاورہ (۱) تنھی سی روٹی تنور میں لگانا (۲) وہ تھوڑا کلام
کہنے یا جانا جس سے تھوڑی سی آدنی ہوتی ہے (۳) کسی حق کی وجہ کچھ حاصل کرنا
ٹنگلی لکھنا - (۱) محاورہ) فائدہ حاصل ہونا۔ کامیاب ہونا۔
ٹنگلیا - (ٹنگ۔ یا۔ وہ۔ ا۔ نشت) (۱) چھوٹی روٹی (۲) قرض چکنی (۳) تباہی کی
گولی جو پیم میں رکھ کر لی جاتی ہے (۴) لپٹی۔ گڈی (۵) پیشانی کے اوپر
کا حصہ (۶) دواؤں کی گولی (۷) انگریزی مٹھی کی گولی (۸) گٹے ہونے
کو ٹونوں کی گلیا جیسے پیم میں تباہی کے اوپر رکھتے ہیں۔

ٹنگلیا چوڑھی - (ا۔ نشت) بددیانت ملازم۔
ٹنگلیت - (ٹ۔ ٹیکت۔ ٹ۔ کے۔ تا۔ وہ۔ صف) مال دار دولت مند
جس کے پاس ٹنگا (روپیہ پیسہ) ہو۔
ٹنگینا - (وہ۔ ا۔ مذ) ایک قسم کا چٹکن جو جرائی پر لیا جاتا ہے۔

ٹہلےس۔ ریل (یس، ۱۰۵-۱۰۳) گپتس۔ بے بنیاد باتیں۔
ٹکلیں مارنا۔ (۱۔ محاورہ) گپتس یا گتتا (۲) فضول باتیں کرنا۔

ٹٹنا۔ (ٹ۔ نا، ۱۰۵-۱۰۱) مذ۔ گوشت کا وہ بڑھا ہوا ٹکڑا جو عورت کی فریج میں بڑھتا ہے۔

ٹٹنا۔ (ٹٹ۔ نا، ۱۰۵-۱۰۱) مذ (۱) وہ پتی سی مختصر لکڑی یا تنکا جو ترکاری یا پھل کے بالائی حصے یا پینڈے میں لگا ہوتا ہے (۲) گھنڈی۔ عورت کی چھاتی کی گھنڈی۔ سرپریشان (۳) بٹن۔ دستی۔

ٹٹناٹنا۔ (ٹ۔ نا، نا، ۱۰۵) مذ (بھٹن) تنا۔ تنا کھینچنا۔ کٹنا۔ بڑھانا۔ پھیلانا۔
ٹٹٹا۔ (ٹٹ۔ ٹا، ۱۰۵-۱۰۱) مذ۔ بھٹلگا۔ فساد۔ لڑائی۔ تکرار۔ رتو کو۔ قصیدہ۔
ٹٹٹا۔ مسرت کر جب تک پن ٹٹٹے ہوئے کام۔ ٹٹٹا بس کی بیل سے یا کامت لے نام۔ (مٹل) فساد بھٹلگا۔ جب تک بھٹلگا کیے بغیر کام ہو اس وقت تک بھٹلگا نہ کرنا ہی اچھا۔ بھٹلگا زہر رس کی بیل ہے اس کا تو نام ہی ملے۔ مطلب یہ کہ بھٹلگے میں نقصان ہی نقصان ہوتا ہے۔

ٹٹٹے باز۔ فساد۔ بھٹلگا۔ رتو کو کرنے والا۔
ٹٹٹا۔ (ٹٹ۔ ٹٹ، ۱۰۵) مذ (بھٹن) بھٹلگا۔ فساد۔ لڑائی۔ تکرار۔ رتو کو۔ قصیدہ۔
ٹٹٹ۔ (ٹٹ۔ ٹٹ، ۱۰۵-۱۰۱) مذ (بھٹن) بھٹلگا۔ فساد۔ لڑائی۔ تکرار۔ رتو کو۔ قصیدہ۔
ٹٹٹ۔ (ٹٹ۔ ٹٹ، ۱۰۵-۱۰۱) مذ (بھٹن) بھٹلگا۔ فساد۔ لڑائی۔ تکرار۔ رتو کو۔ قصیدہ۔

ٹٹٹ۔ (ٹٹ۔ ٹٹ، ۱۰۵-۱۰۱) مذ (بھٹن) بھٹلگا۔ فساد۔ لڑائی۔ تکرار۔ رتو کو۔ قصیدہ۔
ٹٹٹ۔ (ٹٹ۔ ٹٹ، ۱۰۵-۱۰۱) مذ (بھٹن) بھٹلگا۔ فساد۔ لڑائی۔ تکرار۔ رتو کو۔ قصیدہ۔
ٹٹٹ۔ (ٹٹ۔ ٹٹ، ۱۰۵-۱۰۱) مذ (بھٹن) بھٹلگا۔ فساد۔ لڑائی۔ تکرار۔ رتو کو۔ قصیدہ۔

ٹٹٹ۔ (ٹٹ۔ ٹٹ، ۱۰۵-۱۰۱) مذ (بھٹن) بھٹلگا۔ فساد۔ لڑائی۔ تکرار۔ رتو کو۔ قصیدہ۔
ٹٹٹ۔ (ٹٹ۔ ٹٹ، ۱۰۵-۱۰۱) مذ (بھٹن) بھٹلگا۔ فساد۔ لڑائی۔ تکرار۔ رتو کو۔ قصیدہ۔
ٹٹٹ۔ (ٹٹ۔ ٹٹ، ۱۰۵-۱۰۱) مذ (بھٹن) بھٹلگا۔ فساد۔ لڑائی۔ تکرار۔ رتو کو۔ قصیدہ۔

ٹٹٹ۔ (ٹٹ۔ ٹٹ، ۱۰۵-۱۰۱) مذ (بھٹن) بھٹلگا۔ فساد۔ لڑائی۔ تکرار۔ رتو کو۔ قصیدہ۔
ٹٹٹ۔ (ٹٹ۔ ٹٹ، ۱۰۵-۱۰۱) مذ (بھٹن) بھٹلگا۔ فساد۔ لڑائی۔ تکرار۔ رتو کو۔ قصیدہ۔
ٹٹٹ۔ (ٹٹ۔ ٹٹ، ۱۰۵-۱۰۱) مذ (بھٹن) بھٹلگا۔ فساد۔ لڑائی۔ تکرار۔ رتو کو۔ قصیدہ۔

ٹٹٹ۔ (ٹٹ۔ ٹٹ، ۱۰۵-۱۰۱) مذ (بھٹن) بھٹلگا۔ فساد۔ لڑائی۔ تکرار۔ رتو کو۔ قصیدہ۔
ٹٹٹ۔ (ٹٹ۔ ٹٹ، ۱۰۵-۱۰۱) مذ (بھٹن) بھٹلگا۔ فساد۔ لڑائی۔ تکرار۔ رتو کو۔ قصیدہ۔
ٹٹٹ۔ (ٹٹ۔ ٹٹ، ۱۰۵-۱۰۱) مذ (بھٹن) بھٹلگا۔ فساد۔ لڑائی۔ تکرار۔ رتو کو۔ قصیدہ۔

ٹٹٹ۔ (ٹٹ۔ ٹٹ، ۱۰۵-۱۰۱) مذ (بھٹن) بھٹلگا۔ فساد۔ لڑائی۔ تکرار۔ رتو کو۔ قصیدہ۔
ٹٹٹ۔ (ٹٹ۔ ٹٹ، ۱۰۵-۱۰۱) مذ (بھٹن) بھٹلگا۔ فساد۔ لڑائی۔ تکرار۔ رتو کو۔ قصیدہ۔
ٹٹٹ۔ (ٹٹ۔ ٹٹ، ۱۰۵-۱۰۱) مذ (بھٹن) بھٹلگا۔ فساد۔ لڑائی۔ تکرار۔ رتو کو۔ قصیدہ۔

ٹ

ٹٹا۔ (ٹٹ۔ نا، ۱۰۵) مذ (۱) بونا۔ ٹھٹلکا (۲) دہلا پتلا آدمی۔
ٹٹا بھٹا۔ (ٹٹ۔ صغ) کھٹے۔ رزل۔ ایرے خیرے۔
ٹٹا۔ (ٹٹ۔ نا، ۱۰۵) مذ (۱) عورتوں کا بناؤ
ٹٹا۔ (ٹٹ۔ نا، ۱۰۵) مذ (۲) شان و شوکت (۳) نمود و نمائش۔
ٹٹا۔ (Timber) (ٹٹ۔ بر، ۱۰۵) مذ (۱) شکاراتی لکڑی۔ شہیر۔ تننا۔
ٹٹا۔ (Timber Merchant) سوداگر چوب عملاتی
لکڑی بیچنے والا۔

ٹٹا۔ (ٹٹ۔ با، ۱۰۵-۱۰۱) مذ (۱) بونا۔ ٹھٹلکا (۲) دہلا پتلا آدمی۔
ٹٹا بھٹا۔ (ٹٹ۔ صغ) کھٹے۔ رزل۔ ایرے خیرے۔
ٹٹا۔ (ٹٹ۔ نا، ۱۰۵) مذ (۱) عورتوں کا بناؤ
ٹٹا۔ (ٹٹ۔ نا، ۱۰۵) مذ (۲) شان و شوکت (۳) نمود و نمائش۔
ٹٹا۔ (Timber) (ٹٹ۔ بر، ۱۰۵) مذ (۱) شکاراتی لکڑی۔ شہیر۔ تننا۔
ٹٹا۔ (Timber Merchant) سوداگر چوب عملاتی
لکڑی بیچنے والا۔

ٹٹا۔ (ٹٹ۔ با، ۱۰۵-۱۰۱) مذ (۱) بونا۔ ٹھٹلکا (۲) دہلا پتلا آدمی۔
ٹٹا بھٹا۔ (ٹٹ۔ صغ) کھٹے۔ رزل۔ ایرے خیرے۔
ٹٹا۔ (ٹٹ۔ نا، ۱۰۵) مذ (۱) عورتوں کا بناؤ
ٹٹا۔ (ٹٹ۔ نا، ۱۰۵) مذ (۲) شان و شوکت (۳) نمود و نمائش۔
ٹٹا۔ (Timber) (ٹٹ۔ بر، ۱۰۵) مذ (۱) شکاراتی لکڑی۔ شہیر۔ تننا۔
ٹٹا۔ (Timber Merchant) سوداگر چوب عملاتی
لکڑی بیچنے والا۔

ٹٹا۔ (ٹٹ۔ با، ۱۰۵-۱۰۱) مذ (۱) بونا۔ ٹھٹلکا (۲) دہلا پتلا آدمی۔
ٹٹا بھٹا۔ (ٹٹ۔ صغ) کھٹے۔ رزل۔ ایرے خیرے۔
ٹٹا۔ (ٹٹ۔ نا، ۱۰۵) مذ (۱) عورتوں کا بناؤ
ٹٹا۔ (ٹٹ۔ نا، ۱۰۵) مذ (۲) شان و شوکت (۳) نمود و نمائش۔
ٹٹا۔ (Timber) (ٹٹ۔ بر، ۱۰۵) مذ (۱) شکاراتی لکڑی۔ شہیر۔ تننا۔
ٹٹا۔ (Timber Merchant) سوداگر چوب عملاتی
لکڑی بیچنے والا۔

ٹ

ٹٹ۔ (ٹٹ۔ با، ۱۰۵-۱۰۱) مذ (۱) بونا۔ ٹھٹلکا (۲) دہلا پتلا آدمی۔
ٹٹا بھٹا۔ (ٹٹ۔ صغ) کھٹے۔ رزل۔ ایرے خیرے۔
ٹٹا۔ (ٹٹ۔ نا، ۱۰۵) مذ (۱) عورتوں کا بناؤ
ٹٹا۔ (ٹٹ۔ نا، ۱۰۵) مذ (۲) شان و شوکت (۳) نمود و نمائش۔
ٹٹا۔ (Timber) (ٹٹ۔ بر، ۱۰۵) مذ (۱) شکاراتی لکڑی۔ شہیر۔ تننا۔
ٹٹا۔ (Timber Merchant) سوداگر چوب عملاتی
لکڑی بیچنے والا۔

ٹٹ۔ (ٹٹ۔ با، ۱۰۵-۱۰۱) مذ (۱) بونا۔ ٹھٹلکا (۲) دہلا پتلا آدمی۔
ٹٹا بھٹا۔ (ٹٹ۔ صغ) کھٹے۔ رزل۔ ایرے خیرے۔
ٹٹا۔ (ٹٹ۔ نا، ۱۰۵) مذ (۱) عورتوں کا بناؤ
ٹٹا۔ (ٹٹ۔ نا، ۱۰۵) مذ (۲) شان و شوکت (۳) نمود و نمائش۔
ٹٹا۔ (Timber) (ٹٹ۔ بر، ۱۰۵) مذ (۱) شکاراتی لکڑی۔ شہیر۔ تننا۔
ٹٹا۔ (Timber Merchant) سوداگر چوب عملاتی
لکڑی بیچنے والا۔

ٹٹ۔ (ٹٹ۔ با، ۱۰۵-۱۰۱) مذ (۱) بونا۔ ٹھٹلکا (۲) دہلا پتلا آدمی۔
ٹٹا بھٹا۔ (ٹٹ۔ صغ) کھٹے۔ رزل۔ ایرے خیرے۔
ٹٹا۔ (ٹٹ۔ نا، ۱۰۵) مذ (۱) عورتوں کا بناؤ
ٹٹا۔ (ٹٹ۔ نا، ۱۰۵) مذ (۲) شان و شوکت (۳) نمود و نمائش۔
ٹٹا۔ (Timber) (ٹٹ۔ بر، ۱۰۵) مذ (۱) شکاراتی لکڑی۔ شہیر۔ تننا۔
ٹٹا۔ (Timber Merchant) سوداگر چوب عملاتی
لکڑی بیچنے والا۔

ٹٹ۔ (ٹٹ۔ با، ۱۰۵-۱۰۱) مذ (۱) بونا۔ ٹھٹلکا (۲) دہلا پتلا آدمی۔
ٹٹا بھٹا۔ (ٹٹ۔ صغ) کھٹے۔ رزل۔ ایرے خیرے۔
ٹٹا۔ (ٹٹ۔ نا، ۱۰۵) مذ (۱) عورتوں کا بناؤ
ٹٹا۔ (ٹٹ۔ نا، ۱۰۵) مذ (۲) شان و شوکت (۳) نمود و نمائش۔
ٹٹا۔ (Timber) (ٹٹ۔ بر، ۱۰۵) مذ (۱) شکاراتی لکڑی۔ شہیر۔ تننا۔
ٹٹا۔ (Timber Merchant) سوداگر چوب عملاتی
لکڑی بیچنے والا۔

ٹنگنا۔ (ٹنگ، نا، دہ۔ ۱۔ مٹ) ایک قسم کی چھوٹی پھلی جس کے مزے کا پاس بڑے ٹنگنے لائے ہوتے ہیں۔
ٹنگنی۔ (ٹنگ، نی، دہ۔ ۱۔ مٹ) ایک قسم کا پودا۔
ٹنگوانا۔ (ٹنگ، وا، نا، دہ، مص) ٹنگوانا، بندھوانا، ٹنگنا کا متعدی متعدی۔
ٹہنا یا۔ (ٹہ، لا، یا، دہ۔ ۱۔ مٹ) اصل۔ ٹونا یا، ٹونا کرنے والا۔ جادوگر۔
ٹہنائی۔ (ٹہ، یا، ای، ٹہ، ہی، یا، دہ۔ ۱۔ مٹ) اصل۔ ٹونا لائی،
 جادوگری۔ ٹونا کرنے والی۔
ٹہی۔ (ٹہ، نی، دہ۔ ۱۔ مٹ) چھوٹا۔ ٹنا۔ گھنڈی۔
ٹہیاں۔ (ٹہ، یاں، دہ، صف) بہت چھوٹا بلونا۔ ٹنگنا۔ بہتہ قد۔
ٹہیاں طوطا۔ چھوٹی نسل کا طوطا۔ چھوٹے قد و قامت کا طوطا۔

ٹنڈی۔ (ٹن، ڈی، دہ۔ ۱۔ مٹ) (۱) ناف (۲) بازو (۳) وہ عورت جس کا ایک ہاتھ ہو۔
ٹنڈیاں باندھنا۔ ٹنڈیاں کسنا۔ (۱) محاورہ، ہاتھوں یا بازوؤں کو جکڑنا (۲) گرفتار کر لینا (۳) مجرم کے ہاتھ اس کی پشت کے پیچھے باندھنا۔
ٹنڈیاں ٹھینا۔ (۱) محاورہ، پکڑا جانا گرفتار ہونا۔
ٹنڈیاں ٹنڈیاں۔ (ٹنڈیا، نا، دہ، مص) رقم ٹنڈیاں باندھنا۔ ہاتھ پیچھے باندھنا۔
ٹنڈیاں ٹھینا۔ (ٹن، ٹی، نا، دہ۔ ۱۔ مٹ) ساز و سامان۔ اسباب۔ وہ اسباب یا چیزیں جو کسی کی ملکیت ہوں (حجارت و استہزاء سے)۔
ٹنڈیل۔ (ٹن، ڈیل، دہ۔ ۱۔ مٹ) قلیوں یا خالصیوں کا افسر (۲) میگڈین کا داروغہ۔

ٹ۔و

ٹوٹ۔ (ٹو، ٹ، دہ۔ ۱۔ مٹ) (۱) سخت یا ناگوار آواز (۲) دھات کے اددھپنی کے برتنوں کی جھکار (۳) درد کی تپک۔ چوٹ کی کسک۔ ٹیس (۴) ہمت۔ دلیری۔ جوش۔
ٹوٹکار۔ (ٹو، کار، دہ۔ ۱۔ مٹ) (۱) مکان کی تانت کی آواز (۲) غیل کی آواز (۳) جھکار
ٹوٹکارنا۔ (ٹو، کار، نا، دہ، مص) (۱) مکان کی تانت کھینچ کر آواز نکالنا (۲) پھینکی یا مٹی کے برتن کو بھرا کر دیکھنا کہ ٹوٹا ہوا تو نہیں ہے۔
ٹوٹکانا۔ (ٹو، کان، دہ، مص) ٹوٹا۔ سلوانا۔ بڑوانا۔
ٹوٹکانی۔ (ٹو، کان، ای، دہ۔ ۱۔ مٹ) (۱) ٹانگنے کی اجرت یا مزدوری (۲) ٹانگنے کا عمل یا کام۔ سیاجانا۔ سلنا۔ بڑا جانا۔
ٹوٹکچر۔ (Tincture) (ٹونگ، چر، دہ، مٹ) ایک جراثیم کش دوا جو رتوں پر لگائی جاتی ہے۔
ٹونگنا۔ (ٹونگ، نا، دہ، مص) ٹانگنا جانا۔ سیاجانا۔ بڑا جانا۔
ٹونگ۔ (ٹو، س، دہ، مص) (۱) سہاگہ۔ ایک معدن۔
ٹونگ۔ (ٹو، مٹ، ٹانگ کا مخفف)۔
ٹونگا۔ (ٹو، صف) پیروں والا جس کے پیروں (مرکبات میں استعمال ہوتا ہے) "ایک ٹونگا" ایک ٹانگ کا "دو ٹونگا" دو ٹانگ کا (مٹ) ایک قسم کی گھاس۔
ٹونگا۔ (ٹو، مٹ) پونجھ۔ چھوٹی یا مختصر دم۔
ٹونگار۔ (ٹو، مٹ) (۱) پھل ٹوٹنا (۲) ٹھوڑا ٹھوڑا کھانا (۳) ٹھونگنا۔
ٹونگارنا۔ (ٹو، گار، نا، دہ، مص) (۱) پونجھ مارنا۔ پوری طرح نہ کھانا۔
ٹونگاری۔ (ٹو، گاری، دہ، مٹ) کھاری۔
ٹونگانا۔ (ٹو، گانا، دہ، مص) ٹونگانا۔ ٹنگوانا۔ آدراں کر دانا۔ پھانسی پڑھوانا۔
ٹونگڑی۔ (ٹونگ، ڈی، دہ۔ ۱۔ مٹ) (۱) ٹانگ کی تصنیف۔ چھوٹی ٹانگ (۲) بطور تصنیف۔
ٹونگڑی براڈرانا۔ اڈنگنا لگانا یا مارنا۔ ٹانگ کے داؤں سے گرانا۔ ٹانگ مار کر اڈینا۔
ٹونگنا۔ (ٹونگ، نا، دہ، مص) (۱) ٹنگنا۔ (۲) پھانسی پڑھوانا، پھت سے ٹھیک ہونی ایک مگڑی، جس پر ستر لگے جاتے ہیں۔

ٹوٹ۔ (ٹو، ٹ، دہ۔ ۱۔ مٹ) (۱) ٹوٹنے کا فعل۔ چھوٹا۔
ٹوٹوٹی۔ (ٹو، ٹو، ٹی، دہ۔ ۱۔ مٹ) تلاش۔
ٹوٹا۔ (ٹو، ٹا، دہ۔ ۱۔ مٹ) (۱) لمبی سلائی۔ (۲) لمبائی کا (۳) جو ٹوٹنے میں اڑ کر چیز نکالے۔
ٹوٹری۔ (ٹو، ٹری، دہ، مٹ) (۱) پھولوں کا گلا (۲) ایک قسم کی آتش بازی۔
ٹوٹ۔ (ٹو، ٹ، دہ۔ ۱۔ مٹ) (۱) بڑی ٹوٹی (۲) انگریزی ٹوٹی (ہیٹ) (۳) ٹوٹے کی ٹوٹی جو لڑائی کے وقت پہننے میں (خود) (۴) غلاف۔ پوشش۔ کور (۵) بڑھ مذہب کی مقدس عمارت (۶) انگلستان۔
ٹوپا۔ (ٹو، پا، دہ۔ ۱۔ مٹ) (۱) ٹانگنا۔ سیون (۲) روٹی دار ٹوٹی۔ کٹوپ (۳) اناج تاپنے کا ایک پیانہ۔
ٹوپا بھرنانا۔ (۱) محاورہ، ٹانگ لگانا۔ ٹانگنا بھرنانا۔ سینا۔
ٹوپین۔ (ٹو، ٹی، دہ۔ ۱۔ مٹ) منہ بند کرنے کی چیز۔
ٹوپینا۔ (ٹو، ٹی، نا، دہ، مص) (۱) مٹی ڈال کر چھپانا۔ (۲) دفن کرنا۔ (۳) درخت یا درخت کی شاخ زمین میں لگانا (۴) ہاتھ سے بیج بونا (۵) لگانا۔ آدیواں کرنا (۶) کچی سلائی کرنا۔ رکھنا۔ ٹوٹنا۔
ٹوپنی۔ (ٹو، ٹی، دہ۔ ۱۔ مٹ) (۱) سر کی پوشاک۔ کلاہ۔ تاج (۲) بندوق کا پٹاخا۔ جس پر ٹھوٹا گنے سے آگ پیدا ہوتی ہے (۳) شکاری جانور کے منہ پر بڑھانے کی قبیل (۴) پھل کے اوپر کا خول (۵) دُور بین کے منہ کا ڈھلکا (۶) سٹیف۔ ذکر کا سر (۷) تختے پر رکھنے کا برتن (۸) کسی چیز کا بالائی حصہ۔
ٹوپنی اتارنا۔ (۱) محاورہ، ٹوپنی سر سے جدا کرنا (۲) کسی کی بے عزتی یا توہین کرنا۔
ٹوپنی اچھالنا۔ (۱) محاورہ، (۲) خوشی ظاہر کرنا (۳) اظہار مسرت کرنا (۴) ہترے ہترے پکارنا۔
ٹوپنی بدل بھائی۔ (۱) مذ، ایسا دوست جس سے بہت گہرا تعلق ہو۔
ٹوپنی بدلنا۔ (۱) محاورہ، دو دوستوں کا آپس میں ٹوپنی کا تبادلہ کرنا۔ بھائی چارہ قائم کرنا۔

ٹوٹی پر ہاتھ ڈالنا - (۱- محاورہ) بے عزتی یا توہین کرنا۔ پگڑی اتارنا۔
 ٹوٹی چڑھانا - (۱- محاورہ) شکاری پرندوں کے سروں پر ٹھہری چڑھانا۔
 تاکران کی آکھیں بند رہیں۔
 ٹوٹی دار - (۱- مذ) وہ اصطبل جس میں بارود ڈال کر اوٹی چڑھا کر چلا جائے۔
 ٹوٹی سے بھی مشورہ کرنا جاسکتے۔ (مثل) مشورے کے لئی کوئی کام نہیں
 کرنا چاہیے۔ اگر اس کام کے لیے آدمی نکلے تو اپنی ٹوٹی ہی سے صلاح مشورہ
 کرنا چاہیے۔
 ٹوٹی والا - (۱- مذ) (۱) مشوق (۲) احمد شاہ ابدالی اور نادر شاہ درانی کی فریاد
 کیے سپاہی جو سرخ ٹوٹی پہنتے تھے (۳) فرنگی۔
 ٹوٹھ برس - (Tooth Brush) ڈانگ - (۱- مذ) دانت صاف
 کرنے کا برس۔
 ٹوٹ - (۱- مذ) (۱) شکستگی چھوٹ (۲) وہ عبارت یا فقرہ جو رد گیا ہو اور
 بعد میں عاشرے پر درج کر دیا گیا ہو (۳) دوستوں میں چھوٹ یا ناراضی۔
 (۴) ہرج - نقصان (۵) کمی - فرق - نا کامی۔
 ٹوٹ پیرنا - (۱- محاورہ) (۱) نقصان اٹھانا - (۲) اچانک حملہ کرنا (۳) کسی کام میں
 ہمت مشغول ہونا (۴) دفعتاً اچھٹا ہونا - (۵) پل پڑنا۔ انتہائی شوق ظاہر
 کرنا (۶) گڑبنا۔
 ٹوٹ پھوٹ - شکستگی - ٹوٹ پھوٹ - ٹکڑے - ٹکڑے - چورا - بزرگی۔
 ٹوٹ پھوٹ ہونا - (۱- محاورہ) (۱) چوڑوں کی تیاری یا لدائی میں کچھ کا
 ٹوٹ جانا (۲) اسباب وغیرہ کھنڈے اٹھانے میں کچھ ٹوٹ جانا۔
 ٹوٹ ٹوٹ کر (کے) - (۱- محاورہ) (۱) شدت سے - کثرت سے (۲)
 تیزی سے - بہت جلد (۳) بڑی کوشش سے - سخت محنت سے (۴) کسی
 فنون سے کثرت سے۔
 ٹوٹ ٹوٹ کر (کے) آنا - (۱- محاورہ) لگاتار آنا۔ تار بانہہ کر آنا کسی
 فنون سے کثرت سے اور دوسرے فنون سے مل جانا۔
 ٹوٹ ٹوٹ کر (کے) بڑھنا - (۱- محاورہ) شدت سے بڑھنا۔
 موسلا دار بارش ہونا۔
 ٹوٹ جانا - (۱) ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا شکستہ ہو جانا (۲) بیماری کی وجہ
 سے نڈھال ہو جانا (۳) منسل ہو جانا (۴) راستے میں ہمارا ہوں سے
 چھوٹ جانا (۵) بیخود ہو جانا (۶) چوڑوں میں درد محسوس کرنا۔ کنویں میں پانی نہ رہنا۔
 ٹوٹ رہنا - (۱- محاورہ) کام کر کے تھک جانا (۲) پڑیوں میں درد ہونا
 (۳) جدائی میں گھٹنا (۴) غریب ہو جانا۔
 ٹوٹ کر (کے) آنا - (۱- محاورہ) کسی کی رفاقت یا کسی کا ساتھ چھوڑ
 کر کرنا (۲) بے حد شوق کے ساتھ آنا۔
 ٹوٹ کر (کے) دل آنا - (۱- محاورہ) بڑی طرح عاشق ہونا۔
 ٹوٹ کر (کے) کرنا - (۱- محاورہ) دیکھے ٹوٹ پڑنا۔
 ٹوٹ نہ دکھ دے ہانکے سب سے بل کر جال - ٹوٹا ڈھویر
 درست ہیں کام گلی میں ڈال - (مثل) دوسروں سے الگ رہنے
 (ٹوٹنے) اور ٹوٹے جھکڑے میں نقصان ہے۔ سب سے مل کر مل (جال)
 ڈنڈا برتن (ڈھویر) گاؤں کی گلی (کام گلی) میں پھینک دیتے ہیں۔ مطلب

یہ ہے کہ ٹوٹے جھکڑے اور کٹ کر لگا کر جانے والے آدمی سے کوئی
 نہیں ملتا جلتا۔
 ٹوٹا - (ٹوٹا) (۱- صفت) (۱) ٹوٹا ہوا۔ چھوٹا ہوا (۲) ناقص - جو مرمت چاہتا
 ہو (۳) تھکا ماندہ - خستہ حال (۴) منسل - بے زر۔
 ٹوٹا باسن سیرے کے سر - (مثل) جس چیز میں کوئی نقص ہو۔ وہ
 پر فوراً واپس کر دی جاتی ہے۔
 ٹوٹا پڑنا - (۱- محاورہ) (۱) اوپر تلے گرنا (۲) کسی چیز پر بہت سے آدمیوں
 کا متوجہ ہو جانا - جوم ہونا - بھینچ ہونا۔
 ٹوٹا پھوٹا - (۱- صفت) جو ٹوٹ پھوٹ گیا ہو شکستہ - جس میں کوئی خرابی
 عجیب یا نقص ہو (۲) معمولی درجے کا (۳) نامکمل۔
 ٹوٹا سیلی کر میں اڑھے کی - (مثل) منسل (ٹوٹا) تیلی صرف ایک اٹھالیے
 ہوئے ہے۔ ظاہر ہے کیا پیچے گا اور کتنا نفع لکھنے کا (عزبت برتن)
 ٹوٹا مت رہ لوں سول (راہ پھیر کے نیچ - ایک ایک لکھنے کو
 سوچھے اور نہ بیچ - مثل) راستے (راہ پھیر) میں دوسروں سے الگ
 (ٹوٹا نہ رہ - لڑائی (ٹوٹ) ہی اکیلا نہ لڑا جو آدمی (منگھ) اکیلا ہو سکے صحیح تدبیر
 (اور بیچ) نہیں سوچھا کرتی مطلب یہ ہے کہ اکیلا آدمی بے یار و مددگار ہونے
 کی وجہ سے راستے میں ٹٹ جاتا ہے اور لڑائی میں لڑ جاتا ہے۔
 ٹوٹے بال - (۱- مذ) وہ بال جو سر میں لگھی کرنے میں ٹوٹتے ہیں۔
 ٹوٹے بال کھولنا - (۱- محاورہ) عورتیں لگھی کرتے ہیں ٹوٹے بالوں
 کو کسی سوراخ میں کھوس دیتی ہیں۔
 ٹوٹے سے بھگے جوڑے کا ٹھٹھکا ہوا - ٹوٹی کا کسا جوڑنا۔
 گاٹھ پڑے اقرنار ہے - (مثل) تعلق توڑ لینے والے (ٹوٹے) آدمی کے
 ساتھ ایک بار پھر تعلق قائم کرنے (گاٹھ جوڑنے) سے انسان الچھ جاتا ہے
 (گھٹلا ہو) توڑے جوئے تعلق کو دوبارہ نہ جوڑا کیا خبر وہ جوڑنے ہی میں
 نہ آئے (مطلب) ایک دفعہ دوستی ٹوٹ جائے تو پھر پہلی سی دوستی نہیں
 ہوتی - بگاڑ کے بعد صلح صفائی کی کوشش کی جائے تب بھی پوری طرح
 صفائی نہیں ہوتی۔
 ٹوٹا - (ٹوٹا) (۱- مذ) (۱) نقصان - گھٹانا - خسارہ (۲) بانس کا ٹکڑا (۳) سگریٹ
 یا سوہنی کا بچا ہوا ٹکڑا (۴) کارٹوس - پٹا خا (۵) کمی - توڑا - تجارت میں
 نقصان (۶) ہرجانہ - تادان (۷) ایک قسم کی آتش بازی (۸) غریبی منغلی
 (۹) محاول کا چورا۔
 ٹوٹا اٹھانا - سہنا - (۱- محاورہ) خسارہ اٹھانا۔ نقصان اٹھانا۔
 ٹوٹا بھر دینا - ٹوٹا دینا - (۱- محاورہ) خسارہ پورا کر دینا۔ نقصان پورا کرنا
 تادان بھنا - معاد و نہ دینا۔
 ٹوٹا پڑنا - ٹوٹا ہونا - (۱- محاورہ) (۱) کمی ہونا (۲) نقصان ہونا خسارہ ہونا
 ٹوٹا ٹالے نہ ملے جب تک مٹے نہ لیکھ - ساودھ کہیں دے
 ہانکے لاکھ جتن کر دیکھ - جب تک قسمت کا لکھا (لیکھ) نہ ملے اس
 وقت تک نقصان (ٹوٹا) کوشش کرنے سے بھی نہیں مل سکتا (ٹالے نہ ملے)
 خواہ کتنی ہی کوشش (جتن) کی جائے مطلب یہ کہ جب تک تقدیر یا در نہ ہو
 نقصان پورا نہیں ہے انسان کوشش اسے روکنے کے معاملے میں بے بس ہے۔

ٹوہ رکھنا۔ (۱- محاورہ) (۱) حال معلوم کرتے رہنا (۲) خبر گیری کرنا (۳) تلاش میں رہنا۔
 ٹوہ لگانا۔ (۱- محاورہ) کھوج لگانا۔ پتا لگانا۔ سراخ لگانا۔
 ٹوہ لینا۔ (۱) کسی کا عندیہ معلوم کرنا (۲) کسی معاملے کا گہرا راز معلوم کرنا۔
 (۳) پتا لگانا۔
 ٹوہ میں رہنا۔ (۱- محاورہ) (۱) تلاش میں رہنا (۲) عیب ڈھونڈنے کے درپے رہنا۔
 ٹوہ پٹا ہوا۔ (۱- ہ) (۱) تلاش۔ مٹول (۲) چھان بین (۳) دیکھ بھال۔
 ٹوہ پٹنا۔ (ٹوہ-نا) (۱- ہ) (۱) تلاش کرنا (۲) کھوج لگانا۔ پتا چلانا (۳) عندیہ معلوم کرنا (۴) ٹٹولنا۔

ٹوہ پٹنا۔ (ٹوہ-بی-یا) (۱- ہ) (۱) تلاش کرنے والا۔ کھوجی۔ جاسوس۔
 ٹوہ پٹول۔ (Twill) (ٹوہ-ول، ڈانگ) (۱- ہ) (۱) دو سوئی کی طرح کا سوئی کپڑا۔
 ٹوہ پٹی۔ (ٹوہ-ٹی) (۱- ہ) (۱) مٹ (۲) قلم (۳) جو رباجرے کی پوری۔ نیزہ کی پوری۔
 ٹوہ پٹا۔ (۱- ہ) (۱) صفت، دیکھے مٹیاں۔
 ٹوہ پٹا۔ (Tweed) (ٹوہ-ڈ) (۱) ڈانگ (۱- ہ) (۱) کھڑورا یا موٹا موٹی کپڑا۔

ٹ

ٹہل۔ (ٹہ-یل) (۱- ہ) (۱) خدمت گزاری (۲) ملازمت (۳) خدمت۔
 ٹہل (۴) محنت۔ شفقت (۵) چہل قدمی۔
 ٹہل جانا۔ (۱- محاورہ) (۱) چلا جانا (۲) چل جانا۔ بھاگ جانا (۳) مرجانا۔
 ٹہل کرنا۔ (۱) محاورہ، خدمت کرنا۔ سیلو کرنا۔ آنا۔ پہنچانا۔
 ٹہل کرنا۔ (۱) قہقہے کی جو دیوے نہیں آریس۔ (۲) زین دناراضی رہو
 جگ میں تسوا بیس۔ (۳) دشل، قہقہوں کی خدمت کرو۔ وہ تمہیں دعائیں آریس،
 دیں گے۔ ان دعاؤں کی برکت سے تم سات دن (۱) دن (۲) دن خوش رہو گے دنیا
 میں قطعی طور پر رسوا بیس خوش رہنے کا یہی طریقہ ہے۔ مطلب یہ کہ غریبوں
 کو دینے والے سے انسان کو دلی سکون ملتا ہے۔
 ٹہل کرنا۔ (۱) باپ کی جو ہو ہیں سپیورن آس۔ یا ٹہل سوں
 جو پھیریں نرک اٹھوں کی باس۔ (۲) دشل، ماں باپ کی خدمت، ٹہل کرو
 تاکہ (جو) تمہاری ائیدی پوری ہوں (سپیورن ہوئیں) اس (۱) خدمت سے
 (سوں) جو برکتہ ہوتے ہیں۔ ان کا ٹھکانا (باس) (۱) دوزخ (۲) زک) ہے۔ مطلب
 یہ کہ والدین کی خدمت سے سب کچھ مل جاتا ہے اور جو ایسا نہ کریں ان کی
 عاقبت خراب ہو جاتی ہے۔
 ٹہل نہ کوری لاؤ جو پوری کوری۔ (۱) دشل، خدمت تو کچھ بھی نہیں کی
 (ٹہل نہ کوری) معاذ خدا گئے کو تیار میں۔ کام چور۔
 ٹھلانا۔ (ٹھ-لانا) (۱- ہ) (۱) (۲) پھیرنا۔ چہل قدمی کرنا (۳) گھوڑوں کو پھیر دینا۔
 (۳) ٹھانا۔ چٹانا (۴) غائب کرنا (۵) موقوف کرنا۔
 ٹھلنا۔ (ٹھ-ل) (۱- ہ) (۱) آہستہ آہستہ پھیرنا۔ چہل قدمی کرنا۔ گشت لگانا
 پھیر کرنا (۲) رخصت ہونا۔ ٹھنا۔ جدا ہونا (۳) مرجانا (۴) سیر کرنا۔
 ٹھلنی۔ (ٹھ-ل) (۱- ہ) (۱) (۲) خدمت کرنے والی۔ ملازمہ۔

ٹھا۔ (۱- ہ) (۱) (۱) زور کی آواز۔ پٹانے کی آواز (دھڑک) (۲) جگہ۔ مقام (۳) (۴) (۵) (۶) (۷)
 (۸) (۹) (۱۰) (۱۱) (۱۲) (۱۳) (۱۴) (۱۵) (۱۶) (۱۷) (۱۸) (۱۹) (۲۰) (۲۱) (۲۲) (۲۳) (۲۴) (۲۵) (۲۶) (۲۷) (۲۸) (۲۹) (۳۰)
 (۳۱) (۳۲) (۳۳) (۳۴) (۳۵) (۳۶) (۳۷) (۳۸) (۳۹) (۴۰) (۴۱) (۴۲) (۴۳) (۴۴) (۴۵) (۴۶) (۴۷) (۴۸) (۴۹) (۵۰)
 (۵۱) (۵۲) (۵۳) (۵۴) (۵۵) (۵۶) (۵۷) (۵۸) (۵۹) (۶۰) (۶۱) (۶۲) (۶۳) (۶۴) (۶۵) (۶۶) (۶۷) (۶۸) (۶۹) (۷۰)
 (۷۱) (۷۲) (۷۳) (۷۴) (۷۵) (۷۶) (۷۷) (۷۸) (۷۹) (۸۰) (۸۱) (۸۲) (۸۳) (۸۴) (۸۵) (۸۶) (۸۷) (۸۸) (۸۹) (۹۰)
 (۹۱) (۹۲) (۹۳) (۹۴) (۹۵) (۹۶) (۹۷) (۹۸) (۹۹) (۱۰۰)

ٹھالا۔ (دہ۔ صفت) (۱) بے کار (۲) جسے فراغت ہو۔ فرصت ہو (۳) منغسی۔ محتاجی۔

ٹھالا چھرنا۔ (۱) محاورہ) آواز بھرننا۔ بے کار ادھر ادھر بھرننا۔

ٹھالی۔ (ٹھالی۔) (دہ۔ صفت) (۱) خالی (۲) بے کار۔ بے روزگار (۳) جسے کام سے فراغت ہو۔ جو بھٹی پر ہو (۴) چھوٹی شاخ۔

ٹھالی بنانا لوے باٹ۔ (مثل) انسان بے کاری کی حالت میں فضول یا غیر ضروری کام کرتا ہے (بنا خالی بیٹھے) بیٹھے اپنے بننے ہی کو لئے شروع کر دیتا ہے)۔

ٹھالی بنایا کرے۔ اس کو ٹھالی کے دھان اس کو ٹھالی دھرے۔ (مثل) ٹھالی (خالی) بنایا کرے وہ ایک کو ٹھالی کے دھان دوسری کو ٹھالی میں رکھنے لگتا ہے۔ مطلب یہ کہ آدمی بے کاری کی حالت میں فضول کام کرنے لگتا ہے۔

ٹھام۔ (ق۔) (دہ۔) مقام۔

ٹھال۔ (دہ۔) (مث) بندوق چلنے کی آواز گولی چلنے کی آواز۔

ٹھال ٹھال۔ (مث) ٹھالیں ٹھالیں۔ بندوق کے فیروں کی لگانا آوازیں۔ ٹھالٹس۔ (ق۔) (مث) کھانسی۔

ٹھانسا۔ (مث) (سا) (دہ۔) (۱) بندوق کی ڈاٹ یا وہ پیتھرا جو اس کے اندر بھرا جاتا ہے۔

ٹھانسا۔ (ٹھانس۔) (نا) (دہ۔) (۱) ٹھونسا خوب دبا کے بھرننا کھج بھرننا۔ (۲) گھسیٹنا۔ داخل کرنا (۳) مضبوط یا پختہ کرنا (۴) گھوڑے کی لگام کھینچنا (۵) ٹھان لینا۔ (ٹھان۔) (ے۔) (نا) (دہ۔) (۱) بچا آواز دہ کر لینا۔ جھد کر لینا۔

ٹھاننا۔ (ٹھان۔) (نا) (دہ۔) (۱) بچا آواز دہ کر لینا۔ مضبوط باندھنا۔

ٹھاؤل۔ (ٹھاؤل۔) (اول) (دہ۔) (مث) (ق) جگہ۔ ٹھکانا۔ استھان۔

ٹھاؤس۔ ٹھاؤل۔ جگہ جگہ (ق)۔

ٹھٹیا۔ (ٹھٹیا۔) (یا) (دہ۔) (۱) دھات کا بنا ہوا چھاپا نقش کرنے۔ چھاپنے یا نشان لگانے کا آلہ (۲) سکر۔ نقش (۳) مہر۔ انکھرا ہوا نقش۔ ڈاٹی (۴) ساچنا۔ غالب (۵) وہ نشان یا نقش جو ٹھٹے سے لگے یا چھپے (۶) ایسا نشان جو لاکھ پائیس سے کسی چیز پر لگ جائے (۷) چوڑا ٹوٹا پائیس۔

ٹھٹیا لگانا۔ (۱) نقش لگانا (۲) چھاپنا (۳) نشان لگانا۔

ٹھٹھٹ۔ (ٹھٹھٹ۔) (دہ۔) (۱) بھیر۔ از دعام جگھٹ۔ جوم۔ انوہ۔ مجمع۔

ٹھٹھٹ کے ٹھٹھٹ۔ (۱) (دہ۔) (۱) گردہ کے گردہ۔ زبردست بھیر۔ زبردست

ہجوم۔ جوم۔ جوم۔

ٹھٹھا۔ ٹھٹھا۔ (ٹھٹھا۔) (ٹھا۔) (ٹھا۔) (دہ۔) (۱) ہنسی مذاق۔ بچیل (۲) ہتھہ۔

ٹھٹھا۔ (ٹھٹھا۔) (ٹھا۔) (ٹھا۔) (دہ۔) (۱) ہنسی مذاق۔ بچیل (۲) ہتھہ۔

ٹھٹھا۔ (ٹھٹھا۔) (ٹھا۔) (ٹھا۔) (دہ۔) (۱) ہنسی مذاق۔ بچیل (۲) ہتھہ۔

ٹھٹھا۔ (ٹھٹھا۔) (ٹھا۔) (ٹھا۔) (دہ۔) (۱) ہنسی مذاق۔ بچیل (۲) ہتھہ۔

ٹھٹھا۔ (ٹھٹھا۔) (ٹھا۔) (ٹھا۔) (دہ۔) (۱) ہنسی مذاق۔ بچیل (۲) ہتھہ۔

ٹھٹھا۔ (ٹھٹھا۔) (ٹھا۔) (ٹھا۔) (دہ۔) (۱) ہنسی مذاق۔ بچیل (۲) ہتھہ۔

ٹھٹھا۔ (ٹھٹھا۔) (ٹھا۔) (ٹھا۔) (دہ۔) (۱) ہنسی مذاق۔ بچیل (۲) ہتھہ۔

ٹھٹھا۔ (ٹھٹھا۔) (ٹھا۔) (ٹھا۔) (دہ۔) (۱) ہنسی مذاق۔ بچیل (۲) ہتھہ۔

ٹھٹھا۔ (ٹھٹھا۔) (ٹھا۔) (ٹھا۔) (دہ۔) (۱) ہنسی مذاق۔ بچیل (۲) ہتھہ۔

ٹھاٹ مارنا۔ (۱) محاورہ) (دہ) برننے کا اڑنے سے پہلے بڑھونا (۲) مگھوں کو بال دیر پلانا (۳) کبوتر کا چنچن کر کے اٹھنا (۴) منہ اڑانا۔ ٹھاٹھیں مارنا۔ (۱) محاورہ) پانی کا اونچی اونچی پٹر پٹر خر میں مارنا۔

ٹھاٹھا۔ (دہ۔) (۱) (دہ۔) (۱) بل کا گومان (۲) وہ کپڑا جو چور کا لاکھوت اور دھندرا اس لیے منہ پر باندھتے ہیں کہ پہچاننے نہ جائیں (۳) وہ کپڑا جو ڈاٹھی کی مانگ نکال کر اسے دائیں بائیں گولوں پر جانے کے لیے باندھتے ہیں۔

ٹھاٹھ۔ (ٹھاٹھ۔) (دہ۔) (۱) (دہ۔) (۱) بائیں کا ٹھاٹھ۔ ٹھاٹھ۔ (۲) کپڑوں اور سرخوں کا ڈبہ پر (۳) روشنیوں کی ٹھی جو تقریبات پر کھڑی کی جاتی ہے۔

ٹھاٹھ بندھی۔ (دہ۔) (مث) روشنیوں کی ٹھی یا ٹھاٹھ باندھنا۔

ٹھاٹھ ٹھول کھٹو آیا۔ (مثل) نکلے اور کئی نہ کرنے والے شوہر کے گھر آنے پر بطور طنز یہ مثل کہتے ہیں۔

ٹھاٹھا۔ (ٹھاٹھا۔) (دہ۔) (صفت) (۱) طاقت ور۔ مضبوط۔ توانا

قوی۔ سیکھ۔ زور آور (۲) سیدھا کھڑا ہوا۔ جمودی۔ ایک جگہ قائم۔ گڑا

بجوا (دہ) ڈھلوان۔

ٹھاٹھا۔ (دہ) (مث) اور (آگے رکھ لے) رونے نہ دے۔ (مثل) زبردست زیادتی کرنے کے بعد فریاد بھی نہیں کرنے دیتا۔ غالب منکوب کے ساتھ

جو سلوک چاہے کرے۔

ٹھاٹھے کی جو روسب کی دادی۔ عزیز کی جو روسب کی بھالی۔ (۱) بردست آدمی کی بیوی کی سب عزت کرتے ہیں مگر عزیز کی بیوی سے بے تکلفی کا برتاؤ کرتے ہیں۔

ٹھاٹھا۔ (دہ۔) (۱) (دہ۔) (۱) برف۔ بالہ (۲) ارادہ۔ قصد (۳) جگہ۔ ٹھکانا۔

ٹھاٹھا۔ (دہ۔) (ری) (دہ۔) (۱) (دہ۔) (۱) دو کھڑی جو کھڑی پھینکنے والے دوسرے کے

ٹھاٹھا۔ (دہ۔) (ری) (دہ۔) (۱) (دہ۔) (۱) دو کھڑی جو کھڑی پھینکنے والے دوسرے کے

ٹھاٹھا۔ (دہ۔) (ری) (دہ۔) (۱) (دہ۔) (۱) دو کھڑی جو کھڑی پھینکنے والے دوسرے کے

ٹھاٹھا۔ (دہ۔) (ری) (دہ۔) (۱) (دہ۔) (۱) دو کھڑی جو کھڑی پھینکنے والے دوسرے کے

ٹھاٹھا۔ (دہ۔) (ری) (دہ۔) (۱) (دہ۔) (۱) دو کھڑی جو کھڑی پھینکنے والے دوسرے کے

ٹھاٹھا۔ (دہ۔) (ری) (دہ۔) (۱) (دہ۔) (۱) دو کھڑی جو کھڑی پھینکنے والے دوسرے کے

ٹھاٹھا۔ (دہ۔) (ری) (دہ۔) (۱) (دہ۔) (۱) دو کھڑی جو کھڑی پھینکنے والے دوسرے کے

ٹھاٹھا۔ (دہ۔) (ری) (دہ۔) (۱) (دہ۔) (۱) دو کھڑی جو کھڑی پھینکنے والے دوسرے کے

ٹھاٹھا۔ (دہ۔) (ری) (دہ۔) (۱) (دہ۔) (۱) دو کھڑی جو کھڑی پھینکنے والے دوسرے کے

ٹھاٹھا۔ (دہ۔) (ری) (دہ۔) (۱) (دہ۔) (۱) دو کھڑی جو کھڑی پھینکنے والے دوسرے کے

ٹھاٹھا۔ (دہ۔) (ری) (دہ۔) (۱) (دہ۔) (۱) دو کھڑی جو کھڑی پھینکنے والے دوسرے کے

ٹھاٹھا۔ (دہ۔) (ری) (دہ۔) (۱) (دہ۔) (۱) دو کھڑی جو کھڑی پھینکنے والے دوسرے کے

ٹھاٹھا۔ (دہ۔) (ری) (دہ۔) (۱) (دہ۔) (۱) دو کھڑی جو کھڑی پھینکنے والے دوسرے کے

ٹھاٹھا۔ (دہ۔) (ری) (دہ۔) (۱) (دہ۔) (۱) دو کھڑی جو کھڑی پھینکنے والے دوسرے کے

ٹھاٹھا۔ (دہ۔) (ری) (دہ۔) (۱) (دہ۔) (۱) دو کھڑی جو کھڑی پھینکنے والے دوسرے کے

ٹھاٹھا۔ (دہ۔) (ری) (دہ۔) (۱) (دہ۔) (۱) دو کھڑی جو کھڑی پھینکنے والے دوسرے کے

ٹھاٹھا۔ (دہ۔) (ری) (دہ۔) (۱) (دہ۔) (۱) دو کھڑی جو کھڑی پھینکنے والے دوسرے کے

ٹھاٹھا۔ (دہ۔) (ری) (دہ۔) (۱) (دہ۔) (۱) دو کھڑی جو کھڑی پھینکنے والے دوسرے کے

ٹھوڑی تارا۔ ٹھوڑی کا تیل۔

ٹھوڑی کے نیچے ہاتھ دے کر بیٹھنا۔ (۱-۱) عمارتوں، زمیندہ ہونا۔ طول ہونا
ٹھوڑی میں ہاتھ دینا۔ (۱-۱) عمارتوں، (۱) ناراضی دہر کرنے کے لیے
خوشامد کرنا (۲) منت سماجت کر کے غصہ دھما کرنا۔

ٹھوس۔ (۱-۱) صفت (۱) بھرا ہوا جس میں خول یا خالی جگہ نہ ہو۔ پڑ-عجم بگڑ
پڑ-سبز۔ بھاری۔ بوجھل (۲) ٹھوس۔ کم ذہن۔ کندہ ذہن۔
ٹھوس (۱-۱) صفت (۱) دیکھے ٹھوس۔ بھر تو۔ جامد۔

ٹھوس ٹھاس۔ دیکھے ٹھوس ٹھاس۔ ناقص۔ زائد۔
ٹھوسا۔ (۱-۱) مذ (۱) لافہ کا لگوٹھا۔ ٹھینگا۔

ٹھوسا بھی نہ دینا۔ (۱-۱) عمارتوں، کچھ بھی نہ دینا۔
ٹھوسا دکھانا۔ (۱-۱) عمارتوں، ہاتھ لگا لگوٹھا انکار کے طور پر ہلا کر دکھانا۔
مید یا ہٹ کرنا۔

ٹھوسے پر مارنا۔ (۱-۱) عمارتوں، (۱) اہمیت نہ دینا (۲) عزت نہ کرنا جو جوتی پرانا
ٹھوسے سے۔ جوتی سے۔ بلا سے۔ (۱) پردانی کا اٹھانا۔

ٹھوک۔ (۱-۱) مذ (۱) ضرب۔ صدمہ۔ ٹھوک۔
ٹھوک بجا کے۔ (۱-۱) عمارتوں، (۱) اچھی طرح دیکھ بھال کے۔ کھرا کھونا۔ ٹھوکا ٹھوکنا
دیکھ کے (۲) علانیہ حکم کھلا (۳) برتن کو اٹھلے سے بجا کے۔

ٹھوک بجا کے لینا۔ (۱-۱) عمارتوں، (۱) کھرا کھونا۔ ٹھوکا ٹھوکنا دیکھ کے خریدنا۔
رکنے کے بعد لینا (۲) علانیہ خریدنا حکم کھلا۔

ٹھوکا۔ (ٹھوکا) (۱-۱) مذ (۱) ٹھیس۔ ٹھوک۔
ٹھوکا جانا۔ (۱-۱) عمارتوں، ٹھکانا۔

ٹھوکا دینا۔ (۱) ہاتھ پاؤں سے دھکا دینا (۲) جتنا آگاہ کرنا۔
ٹھوکر۔ (ٹھوکر) (۱-۱) صفت (۱) راستے میں پاؤں کو لگنے والی ضرب (۲) پاؤں

سے لگائی جانے والی ضرب (۳) وہ ضرب جو پاؤں کے نیچے یا ایڑی سے
کسی کو دانستہ یا قصداً آریں (۴) ٹھوکے کا پاؤں کسی روک سے ٹکنا (۵)

لاٹ (۶) ضرر۔ کھانا۔ نقصان (۷) راستے کی تڑائی (۸) جواریلوں کی زبان
میں جوتی (۹) بیسے پاؤں کی ٹھوک ٹھوک لگادی (۱۰) مستحق کا ناز سے قدم

مارنا (۱۱) نپٹنے والی کافرش پر پاؤں مارنا (۱۲) پہلی جس میں تابوت رکھتے
ہیں (۱۳) چوٹ۔ صدمہ (۱۴) پشت یا دیوار جو دریا کے پانی کو آگے بڑھنے

سے روکے (۱۵) ریل کے انجن کے آگے لگا ہوا آہنی چھاج (۱۶) ریل
گاڑی کے دونوں سروں پر لوہے کے دو آگے جن کی وجہ سے ٹکر کے وقت

ڈول کو نقصان نہیں پہنچتا۔ (۱۷) ٹرولر سے لائن کے سرے کا پشت (۱۸) خرابی
ط تباہی (۱۹) نہر میں پانی کی روک۔

ٹھوکر اٹھانا۔ (۱-۱) عمارتوں، نقصان برداشت کرنا۔ خسارہ اٹھانا (۲) صدمہ اٹھانا۔
ٹھوکر پھوکر اٹھانا۔ ٹھوکر پھوکر لگنا۔ (۱-۱) عمارتوں، (۱) لگاتار مدد سے

اٹھانا (۲) نقصان پر نقصان ہونا ایک تکلیف کے بعد دوسری تکلیف اٹھانا۔
ٹھوکر پر مارنا۔ (۱-۱) عمارتوں، (۱) کسی چیز پر لات مارنا (۲) حقیر یا ذلیل سمجھنا۔
ٹھوکر کھانا۔ (۱) پاؤں میں کسی سخت چیز کی ٹکر لگنا (۲) اچھ کر کرنا (۳) صدمہ
اٹھانا۔ نقصان اٹھانا (۴) دھوکا کھانا (۵) سبن ٹھنا۔
ٹھوکر کھا دے بدھ یا دوسے۔ (مثل) نقصان اٹھا کر عمل آتی ہے۔

ٹھوکر لگانا۔ (۱-۱) عمارتوں، (۱) لات مارنا۔ ٹھکرانا (۲) حقیر سمجھنا بے حقیقت
گردانا (۳) ایڑ لگانا (۴) پاؤں کے پنجے سے کسی چیز کو ضرب لگانا۔

ٹھوکر لگنا۔ (۱-۱) عمارتوں، (۱) پاؤں میں چوٹ آنا (۲) صدمہ پہنچنا (۳) نقصان اٹھانا
ٹھوکر لگی بھاڑ کی گھر کی ٹوڑیں بسل۔ (مثل) زبردست سے چوٹ یا
نقصان اٹھانے کے بعد کوئی کمزوروں کو تنگ کرے تو اس پر یہ مثل کہتے ہیں

ٹھوکر لگی ہونا۔ (۱-۱) عمارتوں، مصیبت یا نقصان کا پہلے سے تجربہ ہونا۔
ٹھوکر لینا۔ (۱-۱) عمارتوں، (۱) ٹھوکرے کا ٹھوکر کھانا (۲) غلطی کرنا۔ ٹھوکر ہونا (۳) اچھ کر کرنا
ٹھوکر مارنا۔ (۱-۱) عمارتوں، (۱) لات مارنا۔ ٹھکرانا (۲) حقیر سمجھنا (۳) ترک کر دینا۔

(۴) قبول نہ کرنا (۵) پاؤں سے ضرب لگانا۔
ٹھوکرول (پر) میں پڑا رہنا۔ (۱-۱) عمارتوں، بے عزتی اور ذلت کی
معامات میں رہنا۔

ٹھوکرول چلنا۔ (۱-۱) عمارتوں، پاؤں کی ٹھوکر میں لگنا۔
ٹھوکرول کر دینا۔ (۱-۱) عمارتوں، ایذا یا ذلت یا تکلیف دینا۔
ٹھوکرول کھا کر سنبھلنا۔ (۱-۱) عمارتوں، نقصان اٹھا کر ہوش میں آنا کھوکر

ط تجربہ حاصل کرنا۔
ٹھوکرول کھانا۔ (۱-۱) عمارتوں، (۱) ٹکنا۔ بچکنا (۲) لاشیں کھانا (۳) روندن
میں آنا (۴) در بدر چرنا (۵) سختیاں اٹھانا (۶) بائیں سننا (۷) ذلیل و سزا

ہونا (۸) کثرت سے نقصان اٹھانا۔ (۹) غلطی پر غلطی کرنا۔
ٹھوکرول کھلانا (کھلوانا)۔ (۱-۱) عمارتوں، (۱) ذلیل گردانا (۲) در بدر بھرنانا۔
ٹھوکرنا۔ (ٹھوک) (نا) (۱) مومن (۲) مارنا۔ زد و کوب کرنا۔ لاشیں اور کتے مارنا۔

(۳) گاڑنا (۴) کوٹنا (۵) مسز دینا (۶) پیڑھے تھپ تھپانا۔ شاہی دینا۔
حمت افزائی کرنا (۷) دروازہ کھٹکھٹانا (۸) دعوے کرنا۔ مقدرہ دار کرنا
(۸) پاؤں میں بیڑیاں ڈالنا (۹) (طبلہ) بجانا (۱۰) (قفل) لگانا یا چڑنا (۱۱)

ڈنڈا کھینچنا (۱۲) روڑے اٹھانا۔ رکاوٹ ڈالنا۔
ٹھولا۔ (ٹھولا) (۱-۱) مذ (۱) وہ پیالہ جو پرندے کے پنجے کے اندر رکھتے
ہیں (۲) انگلی کے چوڑے کا بیرونی رخ۔

ٹھولا مارنا۔ انگلی کے جوڑے کے بیرونی رخ کو کسی چیز پر مارنا یا کھٹکھٹانا۔
ٹھونٹھ۔ (۱-۱) مذ (۱) کتا ہوا بازو (۲) درخت کا کتا ہوا تانا۔ ٹنڈ۔ دیکھے
ٹھونٹھ اور ٹنڈ۔

ٹھونٹھا۔ (ٹھونٹھا) (۱-۱) صفت (۱) دیکھے ٹنڈا (۲) مذ (۱) ڈنڈا (۲) لمبی
خشک کپڑی (۳) حقے کی سیدھی نے۔
ٹھونس ٹھانس۔ (۱-۱) صفت (۱) کسی چیز کو زبردستی کسی ایسی چیز میں ڈالنا

ط یا بھرنانا یا رکھنا جس میں گنجائش کم ہو۔
ٹھونٹا۔ (ٹھونس) (نا) (۱) صفت (۲) دبا کر بھرنانا (۳) زور لگا کر بھرنانا (۴)
گھسیڑنا (۵) نیدوں یا بھوکوں کی طرح کھانا (۶) زبردستی کھلانا۔

ٹھونٹھنا۔ (ٹھونٹھ) (نا) (۱) صفت (۲) دیکھے ٹھونٹھ۔
ٹھونٹھ۔ (۱-۱) صفت (۱) چوچ۔ کوئے کی چوچ (۲) بیج کی انگلی دوہری
کرنے کا فعل۔

ٹھونٹھ مارنا۔ (۱-۱) عمارتوں، (۱) چوچ کی انگلی دوہری کر کے مارنا۔ ٹولا مارنا۔

(۱۷) چوچ مارنا۔

ٹھونکا۔ ٹھون۔ (گا) ۵-۱-۵۳ چوچ۔ دیکھو ٹھونگ۔

ٹھونکتا۔ (ٹھونگ۔ نا) ۵-۵-۵۳ [دیکھو ٹھونگ۔

ٹھونکا۔ (ٹھونگ۔ نا) ۵-۱-۵۳ [دیکھو ٹھونگ۔

ٹھونکا کے کی ملاقات۔ ایسی ملاقات جس میں بڑی دوستی یا ہر کی جانے

گرم جوش کی ملاقات۔

ٹھونکا۔ (ٹھونگ۔ نا) ۵-۵-۵۳ [دیکھو ٹھونگ۔

ٹھونکا۔ (ٹھونگ۔ نا) ۵-۱-۵۳ [دیکھو ٹھونگ۔

ٹھونکا۔ (ٹھونگ۔ نا) ۵-۱-۵۳ [دیکھو ٹھونگ۔

ٹھونکا۔ (ٹھونگ۔ نا) ۵-۱-۵۳ [دیکھو ٹھونگ۔

ٹھونکا۔ (ٹھونگ۔ نا) ۵-۱-۵۳ [دیکھو ٹھونگ۔

ٹھونکا۔ (ٹھونگ۔ نا) ۵-۱-۵۳ [دیکھو ٹھونگ۔

ٹھونکا۔ (ٹھونگ۔ نا) ۵-۱-۵۳ [دیکھو ٹھونگ۔

ٹھونکا۔ (ٹھونگ۔ نا) ۵-۱-۵۳ [دیکھو ٹھونگ۔

ٹھونکا۔ (ٹھونگ۔ نا) ۵-۱-۵۳ [دیکھو ٹھونگ۔

ٹھونکا۔ (ٹھونگ۔ نا) ۵-۱-۵۳ [دیکھو ٹھونگ۔

ٹھونکا۔ (ٹھونگ۔ نا) ۵-۱-۵۳ [دیکھو ٹھونگ۔

ٹھونکا۔ (ٹھونگ۔ نا) ۵-۱-۵۳ [دیکھو ٹھونگ۔

ٹھونکا۔ (ٹھونگ۔ نا) ۵-۱-۵۳ [دیکھو ٹھونگ۔

ٹھونکا۔ (ٹھونگ۔ نا) ۵-۱-۵۳ [دیکھو ٹھونگ۔

ٹھونکا۔ (ٹھونگ۔ نا) ۵-۱-۵۳ [دیکھو ٹھونگ۔

ٹھونکا۔ (ٹھونگ۔ نا) ۵-۱-۵۳ [دیکھو ٹھونگ۔

ٹھونکا۔ (ٹھونگ۔ نا) ۵-۱-۵۳ [دیکھو ٹھونگ۔

ٹھونکا۔ (ٹھونگ۔ نا) ۵-۱-۵۳ [دیکھو ٹھونگ۔

ٹھونکا۔ (ٹھونگ۔ نا) ۵-۱-۵۳ [دیکھو ٹھونگ۔

ٹھونکا۔ (ٹھونگ۔ نا) ۵-۱-۵۳ [دیکھو ٹھونگ۔

ٹھونکا۔ (ٹھونگ۔ نا) ۵-۱-۵۳ [دیکھو ٹھونگ۔

ٹھونکا۔ (ٹھونگ۔ نا) ۵-۱-۵۳ [دیکھو ٹھونگ۔

ٹھونکا۔ (ٹھونگ۔ نا) ۵-۱-۵۳ [دیکھو ٹھونگ۔

ٹھونکا۔ (ٹھونگ۔ نا) ۵-۱-۵۳ [دیکھو ٹھونگ۔

ٹھونکا۔ (ٹھونگ۔ نا) ۵-۱-۵۳ [دیکھو ٹھونگ۔

ہونا (۴) (سوال کا جواب درست ہونا (۵) صحیح راستے آنا (۶) صحیح جگہ پر آہینا۔

ٹھیک بنانا۔ (۱) محاورہ (۲) سزا دینا۔ تہنہ کرنا (۳) درست کرنا۔ (۴) راہ پر لانا۔ اصلاح کرنا۔ کسی قابل بنانا۔

ٹھیک ٹھاک۔ (۱) نصف (۲) ہر طرح سے درست۔ بالکل صحیح بوزوں

ٹھیک ٹھور۔ (۱) مناسب جگہ (۲) وہ جگہ جہاں کوئی چیز مناسب طور سے رکھی جانی چاہیے۔

ٹھیک ٹھیک۔ (۱) نصف (۲) ہر جہہ (۳) بالکل سچ۔ بے کم و کاست سچ سچ (۴) ٹھیک کام کرنے کی تاکید (۵) انداز ٹھیک ہے ٹھیک ہے!!

ٹھیک دوپہر۔ (۱) نصف (۲) دن کا وہ وقت جب سورج سر پھر ہو۔ ٹھیک رہنا۔ (۱) نیک چلن رہنا (۲) کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہنا (۳) اچھی حالت میں رہنا۔ اپنے مرتبے سے نہ گزرا (۴) سڑک خراب نہ ہونا۔

ٹھیک کرنا۔ (۱) صحیح کرنا۔ درست کرنا (۲) موزوں بنانا (۳) تصحیح کرنا (۴) سزا دینا (۵) بوسہ ٹھکانے لانا۔ فیصلہ کرنا۔ یقین کرنا۔

ٹھیک نہیں ٹھیکے کا کام۔ ٹھیک کا دے کر گھٹ کھو دام۔ (مشن) ٹھیکے پر کام کرانا مفید نہیں ہوتا۔ کسی کام کا ٹھیک کا دینے سے روپیہ ضائع ہوتا ہے۔

ٹھیک ہونا۔ (۱) محاورہ (۲) درست ہونا (۳) ہر لباس فٹ ہونا (۴) سزا مل جانا۔ مرست ہو جانا۔ ہوش ٹھکانے آ جانا۔ آدی میں جانا۔

ٹھیک۔ (۱) امث (۲) اڑواڑ ٹیک۔ ڈاٹ (۳) پینڈا۔ پینڈی۔ تلا۔ جوتے کا تلا۔ ایڑی (۴) پیچھے (۵) تھے کا ڈھیر (۶) وہ چیز جس سے لکڑی یا آتش بازی کے انار کے یا پھولوں کے گٹھوں کے پینڈوں کے سوراخ بند کرتے ہیں (۷) تلواری کی تال (۸) پگ۔

ٹھیک نکل جانا۔ (۱) پینڈا یا پینڈی نکل جانا یا ٹوٹ جانا (۲) ٹھیک نکلنا۔ (۳) ٹھیکے کا۔ (۴) اڈ۔ (۵) اڈ۔ (۶) ڈٹے لیا ہوا کام۔ اجارہ۔ کنٹرول (۷) کرایا۔ بھاڑا (۸) اجازت۔ لائسنس (۹) پٹا۔ سڑک۔ کرایہ نامہ (۱۰) گردی گرد زمین (۱۱) تھکنے کے بعد آرام (۱۲) طبلے یا ڈھولک کی تھاپ سے داگ کا ساتھ دینا (۱۳) ٹھہرنے کی جگہ۔ (۱۴) ٹاک (۱۵) پگ۔

ٹھیک بجانا، ٹھیک بجانا۔ (۱) محاورہ (۲) طبلہ یا ڈھولک اس انداز سے بجانا یا بجانا کہ گانے والے کو سہارا ملے۔

ٹھیک باندی۔ (۱) امث (۲) کھیت ٹے پر لینا۔ ٹھیک ٹھیک کرنا۔ (۱) محاورہ (۲) گھوڑے کا گڈ گڈے مارنا یا چلنا کودنا۔ ٹھیک ٹھیک کرنا۔ (۱) مذ (۲) وہ نذرانہ جو ٹھیک لینے پر دیا جاتا ہے۔

ٹھیک ٹھیک۔ (۱) مذ (۲) پٹے پر کھیت لینے کا اقرار نامہ۔ ٹھیک ٹھیک حیات۔ (۱) مذ (۲) ایسا بٹا جو زندگی بھر کے لیے ہو۔ ٹھیک کرنا۔ (۱) محاورہ (۲) کسی چیز یا زمین کو پٹے یا اجارے پر دینا۔ ٹھیک کرنا اس کام کا جو کچھ سے ہو وٹے ٹھیک۔ (مشن) انسان کو اس کام کی ذمہ داری لینے چاہیے جسے اچھی طرح کر سکتا ہو۔

ٹھیک لینا۔ (۱) اجارہ لینا (۲) لائسنس لینا۔ اجازت لینا (۳) ذمہ لینا۔

ٹھیک۔ (۱) نصف (۲) صحیح۔ درست۔ سچ۔ قطع۔ بجا۔ منصفانہ (۳) چست موزوں۔ فٹ۔ برابر (۴) جو ہمو۔ جوں کا توں۔ یعنی (۵) پورا پورا۔ رتی بھر کم نہیں (۶) مرضی کے مطابق حسب دل خواہ (۷) باون تو لے پاؤ رتی جھینٹے۔ مسٹر۔ طے شدہ (۸) قابل اعتماد (۹) معقول۔ مناسب (۱۰) مطابق۔ ضرورت۔ کام بنانے والا (۱۱) باقاعدہ۔ حسب قاعدہ (۱۲) مناسب شکل میں (۱۳) خوش نما (۱۴) سیدھا۔ مستقیم (۱۵) پورا۔ مکمل (۱۶) پتہ۔ نشان (۱۷) ٹھونکا۔ مکان۔ اڈا (۱۸) صحیح میزان (۱۹) یقینی علم یقین (۲۰) وقت۔ نیز (۲۱) اعتبار۔ بھروسہ (۲۲) فیصلوں کا آگ جلانے کا برتن (۲۳) عین موٹے پر عین نشانے پر (۲۴) حد۔ انتہا۔

ٹھیک آنا۔ (۱) محاورہ (۲) عین موٹے پر آنا (۳) کپڑے کا بدن پر موزوں

ٹھیک۔ (۱) نصف (۲) صحیح۔ درست۔ سچ۔ قطع۔ بجا۔ منصفانہ (۳) چست موزوں۔ فٹ۔ برابر (۴) جو ہمو۔ جوں کا توں۔ یعنی (۵) پورا پورا۔ رتی بھر کم نہیں (۶) مرضی کے مطابق حسب دل خواہ (۷) باون تو لے پاؤ رتی جھینٹے۔ مسٹر۔ طے شدہ (۸) قابل اعتماد (۹) معقول۔ مناسب (۱۰) مطابق۔ ضرورت۔ کام بنانے والا (۱۱) باقاعدہ۔ حسب قاعدہ (۱۲) مناسب شکل میں (۱۳) خوش نما (۱۴) سیدھا۔ مستقیم (۱۵) پورا۔ مکمل (۱۶) پتہ۔ نشان (۱۷) ٹھونکا۔ مکان۔ اڈا (۱۸) صحیح میزان (۱۹) یقینی علم یقین (۲۰) وقت۔ نیز (۲۱) اعتبار۔ بھروسہ (۲۲) فیصلوں کا آگ جلانے کا برتن (۲۳) عین موٹے پر عین نشانے پر (۲۴) حد۔ انتہا۔

(۴) (طنزاً) کسی اور کو کسی کام میں دخل نہ دینے دینا کسی چیز پر ہتھ اپنا حق جتاننا (۵) زبردستی قبضہ کرنا۔
ٹھیک (۱) مڈ کرانے پر لیا ہوا ٹھیک۔
ٹھیکے دار - (۲) مڈ (۱) وہ شخص جو ٹھیک لے۔ اجارہ دار مستاجر (۲) وہ دو کارڈ جس کو شہ آدر چیزوں کو بیچنے کی اجازت ہو۔
ٹھیکے کا - (۱) کرانے پر لیا ہوا (۲) بے پروائی یا بے توجہی سے کیا ہوا۔
ٹھیکے کا کام ٹھیک - (۱) مڈ (۱) جو کام ٹھیکے پر کرنا یا جانے وہ اچھا نہیں ہوتا۔
ٹھیکرا - (ٹھیک را) (۱) مڈ (۱) مٹی کے برتن کا ٹکڑا (۲) تجارت سے مٹی کے برتن جھانڈے یا پڑانے ٹوٹے ٹھوٹے برتن باسن (۳) انکار یا حقیر سے) مکان یا جائداد (۴) روزی کا وسیلہ - ادزار (۵) ٹھیکیا زیورات (۶) ہندوؤں کے ٹھوڑے کا اوبری حصہ۔
ٹھیکرا چھوڑنا - (۱) مجاہدہ) تمہمت لگانا - الزام دینا بہتان لگانا۔
ٹھیکرے بچوانا - (۱) مجاہدہ) ٹھیکر کا سامان بچوانا یا نیا مل کرنا۔
ٹھیکرے (ٹھیکری) کی بانگ (مانگی) - (۱) بٹل) ایسا رشتہ جو پتے کی پیدائش کے وقت ہو جائے کسی پتے کا رشتہ منظور ہو تو اس کے پیدا ہونے پر دانی کے ٹھیکرے میں نقدی ڈال دیتے ہیں - اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اس پتے کی منگنی ہمارے پتے سے ہو گئی۔

ٹھیکیاں لینا - (۱) مجاہدہ) دم لینے کے لیے بیٹھ جانا۔ دم لے کر چلنا۔
ٹھیکیں - (ٹھیں) (۱) مڈ (۱) بالوں کی تکیوں - رخساروں کے وہ بال جو مونچھوں سے مل جاتے ہیں۔
ٹھیلنا - (ٹھے) (۱) مڈ (۱) دو پیتوں پر ایک تختہ رکھ کر بنائی ہوئی گاڑی، جس میں بیل ہوتے جلتے ہیں (۲) لائقوں سے دھکیل جانے والی گاڑی۔
ٹھیلنا - (ٹھیل) (۱) مڈ (۱) دھکیلنا - رطل دینا (۲) ایک جگہ سے دوسری جگہ ہٹانا (۳) کہنی مارنا (۴) مسخروں جیسی حرکتیں کرنا (۵) رو کرنا۔ ٹھیلنا۔
ٹھیں ٹھیں - (ٹھیں) (۱) مڈ (۱) بیہودہ ہنسی کی آواز۔
ٹھیں ٹھیں ٹھیں - (ٹھیں) (۱) مڈ (۱) کان کا میل یا گولی۔
ٹھیں ٹھیں - (ٹھیں) (۱) مڈ (۱) کاک - ڈاٹ۔
ٹھینکا - (ٹھیں) (۱) مڈ (۱) ہاتھ کا انگوٹھا۔ ٹھوسا (۲) لائٹی سوشل (۳) سنو ٹیبل ٹھنک کا باجنا - (۱) مجاہدہ) ہنسی اڑنا۔ جگ ہنسانی ہونا۔ رسوائی ہونا۔ رسوائی دنگ ہونا۔ فساد ہونا نیز بکھے "جس کا کام کسی کو ملے اور کرے تو ٹھینکا جائے"۔
ٹھینکا دکھانا - (۱) مجاہدہ) (۱) انگوٹھا دکھانا (۲) خاطر میں نہ لانا (۳) پڑنا پھینکا ٹھینکے سے - بلا سے - کچھ پروا نہیں۔
ٹھینکو - (ٹھیں) (۱) مڈ (۱) حق - صفت) پستہ - بونا۔

ٹ

ٹھیاں - (ٹھیاں) (۱) مڈ (۱) صفت) منقا متا - چھوٹا سا پستہ - بونا۔ ٹھنگنا۔ (۱) مڈ (۱) ایک قسم کا طوطا۔

ٹی

(Tea) (ٹاگ) (۱) مڈ (۱) چائے۔
ٹی - ایسے - (Travelling Allowance) (ٹاگ) (۱) مڈ (۱) کا محقق - سفر خرچ۔
ٹی - بی - (Tuberculosis) (ٹاگ) (۱) مڈ (۱) تپ دق۔
ٹی - پارٹی - (Tea-Party) (ٹاگ) (۱) مڈ (۱) چائے کی پارٹی۔
ٹی - آئی - (Travelling Ticket Examiner) (ٹاگ) (۱) مڈ (۱) کا محقق - چلتی گاڑی میں ٹکٹوں کا معائنہ کرنے والا۔
ٹی - وی - (Television) (ٹاگ) (۱) مڈ (۱) کا محقق۔
ٹی - وی - وہ برقی سیٹ جس میں آواز کے ساتھ تصویر بھی نظر آتی ہے۔
ٹی - وی - (ٹی) (۱) مڈ (۱) مڈ (۱) لیر - کوڑی - ایک قسم کی چھوٹی کوڑی۔
ٹی - وی - (ٹی) (۱) مڈ (۱) مڈ (۱) ٹیلا - ٹوڈہ۔
ٹی - وی - (ٹی) (۱) مڈ (۱) مڈ (۱) لبا ٹاٹکا بھرتا - تپھی۔
ٹیپ - (Tape) (ٹاگ) (۱) مڈ (۱) سوت اور پلاسٹک وغیرہ کی باریک پٹی۔
ٹیپ - (Tap Recorder) (ٹاگ) (۱) مڈ (۱) گرامو فون کے وضع کی ایک مشین جس کی پٹیوں میں آواز بھری اور سنی جاسکتی ہے۔

ٹھیکرے منہ پر لوٹنا - (۱) مجاہدہ) بچپن کی سادگی اور بھولپن باقی نہ رہنا۔
ٹھیکرے پر غصہ برسانا۔
ٹھیکرے میں دیا ساتھ کھانے لگانا - (۱) مڈ (۱) کیڈز ٹھوڑی سی رعایت سے سر چڑھ جانا ہے (۲) جس انسان کو ٹھوڑا سا سہارا دودہ برابری کرنے لگتا ہے۔
ٹھیکرے میں ڈالنا - (۱) مجاہدہ) ایک رسم ہے کہ جب زچہ جن کنوارا ہوتی ہے تو جس ٹھیکرے میں پتے کی آڑوں نال وغیرہ ڈالی جاتی ہے اس میں دانی کے حق کے طور پر کتنے رشتے کی عورتیں بھڑی بہت نقدی ڈالتی ہیں۔ اگر فوولود سے کسی پتے کی نسبت ٹھیکری ہو تو اس کے نام سے بھی کچھ نقدی ڈالی جاتی ہے۔
ٹھیکری - (ٹھیک ری) (۱) مڈ (۱) ٹھیکری کی تاریخ۔ ٹھیکرے کے چھوٹے چھوٹے ٹھیکرے (۲) مڈ (۱) مقام زیر نافر (عورت کا)۔
ٹھیکری آنکھوں پر رکھنا - (۱) مجاہدہ) بے مروئی کرنا۔ آنکھ چرانا۔
ٹھیکری دنانی کرنا - لا پرواہی کرنا۔ غفلت برتنا۔
ٹھیکری چھیننا - (۱) مجاہدہ) پاگل ہو جانا۔
ٹھیکری کرنا - (۱) مجاہدہ) (۱) روپے کو بے دردی سے خرچ کرنا (۲) جائداد برباد کرنا۔
ٹھیک ٹھیک - ٹھیکوں ٹھیک - (ٹھیں) (۱) مڈ (۱) ٹھیک - ٹھیک - ٹھیک - ٹھیک (۱) مڈ (۱) مڈ (۱) ہو ہو۔ بیہوش (۲) موزوں مناسب۔
ٹھیک - (ٹھے) (۱) مڈ (۱) مڈ (۱) ٹھیک کی ٹونٹ - سہارا (۲) بوجھ اتار کر آرام لینا (۳) غلہ رکھنے کی جگہ (۴) بوجھ اٹھانے والے دم لینے کے لیے بوجھ سے اتار کر جس چیز کے سہارے رکھیں۔
ٹھیک لگانا - (۱) مجاہدہ) (۱) بوجھ سے اتار کر دم لینا (۲) ڈھیر لگانا۔

ریٹ - (1-10-03) (1) دباؤ (2) اُدپنے سے بچا سُسر۔ اُدبچی سے اُدبچی الایب (3) چیک - تنگ۔ ہنڈی۔ اقرار نامہ (4) یادداشت کے طور پر لکھ لینا (5) مدرس کا تیسرا ستر۔ محنت یا محنت وغیرہ کا آخری شعر۔ بندگرہ (6) ماتھے کا زیور (7) فوج کا دستہ (8) گننے میں ایک پتے کو دو پتوں سے مارنا (9) چیت (10) پکی عمارت کی اینٹوں کی دزدوں کو چونے یا گینت بے بھرنے کا عمل (11) جنم پتری یا زائچہ (12) صفت (عمدہ - اعلیٰ -

ریٹ - (1-10-03) (1) عمارت میں جو درزی اینٹوں کے دربان رہ جاتی ہیں ان کو چونے یا سینٹ سے بڑ کرنا۔
ریٹ - (1-10-03) (1) آرائش۔ زیبائش۔ سنگار (2) خود نمائی (3) مطلقاً (4) اکرؤن۔ شان و شوکت۔
ریٹ - (1-10-03) (1) کی بگڑی ماندھی۔ وہ بھی جو رُو کا صدقہ۔ بل، شاندار بھوک دار بگڑی ماندھی جو بھوی نے بندھوائی تو بندھی۔ پرلے بل بوتے پر شان جتان۔

ریٹ - (1-10-03) (1) عمارت میں جو درزی اینٹوں کے دربان رہ جاتی ہیں ان کو چونے یا سینٹ سے بڑ کرنا۔
ریٹ - (1-10-03) (1) آرائش۔ زیبائش۔ سنگار (2) خود نمائی (3) مطلقاً (4) اکرؤن۔ شان و شوکت۔

ریٹ - (1-10-03) (1) کی بگڑی ماندھی۔ وہ بھی جو رُو کا صدقہ۔ بل، شاندار بھوک دار بگڑی ماندھی جو بھوی نے بندھوائی تو بندھی۔ پرلے بل بوتے پر شان جتان۔

ریٹ - (1-10-03) (1) عمارت میں جو درزی اینٹوں کے دربان رہ جاتی ہیں ان کو چونے یا سینٹ سے بڑ کرنا۔
ریٹ - (1-10-03) (1) آرائش۔ زیبائش۔ سنگار (2) خود نمائی (3) مطلقاً (4) اکرؤن۔ شان و شوکت۔

ریٹ - (1-10-03) (1) کی بگڑی ماندھی۔ وہ بھی جو رُو کا صدقہ۔ بل، شاندار بھوک دار بگڑی ماندھی جو بھوی نے بندھوائی تو بندھی۔ پرلے بل بوتے پر شان جتان۔

ریٹ - (1-10-03) (1) عمارت میں جو درزی اینٹوں کے دربان رہ جاتی ہیں ان کو چونے یا سینٹ سے بڑ کرنا۔
ریٹ - (1-10-03) (1) آرائش۔ زیبائش۔ سنگار (2) خود نمائی (3) مطلقاً (4) اکرؤن۔ شان و شوکت۔

ریٹ - (1-10-03) (1) کی بگڑی ماندھی۔ وہ بھی جو رُو کا صدقہ۔ بل، شاندار بھوک دار بگڑی ماندھی جو بھوی نے بندھوائی تو بندھی۔ پرلے بل بوتے پر شان جتان۔

ریٹ - (1-10-03) (1) عمارت میں جو درزی اینٹوں کے دربان رہ جاتی ہیں ان کو چونے یا سینٹ سے بڑ کرنا۔
ریٹ - (1-10-03) (1) آرائش۔ زیبائش۔ سنگار (2) خود نمائی (3) مطلقاً (4) اکرؤن۔ شان و شوکت۔

ریٹ - (1-10-03) (1) کی بگڑی ماندھی۔ وہ بھی جو رُو کا صدقہ۔ بل، شاندار بھوک دار بگڑی ماندھی جو بھوی نے بندھوائی تو بندھی۔ پرلے بل بوتے پر شان جتان۔

یٹ - (1-10-03) (1) عمارت میں جو درزی اینٹوں کے دربان رہ جاتی ہیں ان کو چونے یا سینٹ سے بڑ کرنا۔
یٹ - (1-10-03) (1) آرائش۔ زیبائش۔ سنگار (2) خود نمائی (3) مطلقاً (4) اکرؤن۔ شان و شوکت۔

یٹ - (1-10-03) (1) کی بگڑی ماندھی۔ وہ بھی جو رُو کا صدقہ۔ بل، شاندار بھوک دار بگڑی ماندھی جو بھوی نے بندھوائی تو بندھی۔ پرلے بل بوتے پر شان جتان۔

یٹ - (1-10-03) (1) عمارت میں جو درزی اینٹوں کے دربان رہ جاتی ہیں ان کو چونے یا سینٹ سے بڑ کرنا۔
یٹ - (1-10-03) (1) آرائش۔ زیبائش۔ سنگار (2) خود نمائی (3) مطلقاً (4) اکرؤن۔ شان و شوکت۔

یٹ - (1-10-03) (1) کی بگڑی ماندھی۔ وہ بھی جو رُو کا صدقہ۔ بل، شاندار بھوک دار بگڑی ماندھی جو بھوی نے بندھوائی تو بندھی۔ پرلے بل بوتے پر شان جتان۔

یٹ - (1-10-03) (1) عمارت میں جو درزی اینٹوں کے دربان رہ جاتی ہیں ان کو چونے یا سینٹ سے بڑ کرنا۔
یٹ - (1-10-03) (1) آرائش۔ زیبائش۔ سنگار (2) خود نمائی (3) مطلقاً (4) اکرؤن۔ شان و شوکت۔

یٹ - (1-10-03) (1) کی بگڑی ماندھی۔ وہ بھی جو رُو کا صدقہ۔ بل، شاندار بھوک دار بگڑی ماندھی جو بھوی نے بندھوائی تو بندھی۔ پرلے بل بوتے پر شان جتان۔

یٹ - (1-10-03) (1) عمارت میں جو درزی اینٹوں کے دربان رہ جاتی ہیں ان کو چونے یا سینٹ سے بڑ کرنا۔
یٹ - (1-10-03) (1) آرائش۔ زیبائش۔ سنگار (2) خود نمائی (3) مطلقاً (4) اکرؤن۔ شان و شوکت۔

یٹ - (1-10-03) (1) کی بگڑی ماندھی۔ وہ بھی جو رُو کا صدقہ۔ بل، شاندار بھوک دار بگڑی ماندھی جو بھوی نے بندھوائی تو بندھی۔ پرلے بل بوتے پر شان جتان۔

یٹ - (1-10-03) (1) عمارت میں جو درزی اینٹوں کے دربان رہ جاتی ہیں ان کو چونے یا سینٹ سے بڑ کرنا۔
یٹ - (1-10-03) (1) آرائش۔ زیبائش۔ سنگار (2) خود نمائی (3) مطلقاً (4) اکرؤن۔ شان و شوکت۔

یٹ - (1-10-03) (1) کی بگڑی ماندھی۔ وہ بھی جو رُو کا صدقہ۔ بل، شاندار بھوک دار بگڑی ماندھی جو بھوی نے بندھوائی تو بندھی۔ پرلے بل بوتے پر شان جتان۔

یٹ - (1-10-03) (1) عمارت میں جو درزی اینٹوں کے دربان رہ جاتی ہیں ان کو چونے یا سینٹ سے بڑ کرنا۔
یٹ - (1-10-03) (1) آرائش۔ زیبائش۔ سنگار (2) خود نمائی (3) مطلقاً (4) اکرؤن۔ شان و شوکت۔

یٹ - (1-10-03) (1) کی بگڑی ماندھی۔ وہ بھی جو رُو کا صدقہ۔ بل، شاندار بھوک دار بگڑی ماندھی جو بھوی نے بندھوائی تو بندھی۔ پرلے بل بوتے پر شان جتان۔

یٹ - (1-10-03) (1) عمارت میں جو درزی اینٹوں کے دربان رہ جاتی ہیں ان کو چونے یا سینٹ سے بڑ کرنا۔
یٹ - (1-10-03) (1) آرائش۔ زیبائش۔ سنگار (2) خود نمائی (3) مطلقاً (4) اکرؤن۔ شان و شوکت۔

ٹیک لگانا۔ (۱۔ محاورہ) ہمارا لینا۔ کسی چیز سے لگ کر یا اس کے سامنے
تھکنا یا بیٹھنا۔

ٹیک۔ (Teak) (مٹ) جنوب مشرقی ایشیا کی ایک قیمتی
اور پائیدار لکڑی۔

ٹیکاکا۔ (رٹی۔ کا) (۱۔ مذ) (۱) صندل یا سیندور وغیرہ کا وہ گول لمبا یا کسی اور
شکل کا نشان جو ہندو لوگ عبادت یا سفر، جنگی، تخت نشینی یا بچوں کو نظر
بد سے بچانے کے لیے اور عورتیں سہاگ کی نشانی کے طور پر ماتھے
پر لگاتی ہیں (۲) گدی پر بٹھلنے کی رسم (۳) سرداری کا نشان (۴) دھبہ۔

داغ (۵) ماتھے کا ایک زبور (۶) شادی بیاہ کے موقع کی ایک خاص رسم
(۷) مٹھائی جو اس موقع پر بھیجی جاتی ہے (۸) شادی کے موقع پر تھکے (۹)
خسر کی جانب سے داماد کو شادی کے موقع پر تھکے (۱۰) شرح۔ تفسیر۔
(۱۱) گھوڑے کے ماتھے کا زبور (۱۲) خاص بات۔ خصوصیت (۱۳) بازو
یا جسم کے کسی اور حصے پر سوئی لگا کر دو اندر داخل کرنا۔

ٹیکاکا بھیجنا۔ (۱۔ محاورہ) نشان چڑھانا۔ نسبت یا منگنی کے وقت مٹھائی وغیرہ
ٹیکاکر وانا۔ (۱۔ محاورہ) انیکیشن لگانا۔ سوئی لگانا۔

ٹیکاکا لگانا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) ٹیکاکا تھکے پر پہننا (۲) ماتھے پر بندی لگانا (۳)
ٹیکاکا پہناری روکنے کے لیے سوئی لگانا (۴) دھبہ یا داغ لگانا۔

ٹیکیکر۔ ٹیکیکرا۔ (ٹی۔ کر۔ ٹیک۔ را) (۱۔ مذ) (۱) ٹیکلا (۲) تودہ۔ ڈھیر۔ انبار (۳)
پہاڑی کی ڈھلوان سطح۔

ٹیکس۔ (Tax) (ٹانگ۔ ا۔ مذ) (۱) محصول (۲) لگان۔

ٹیکس بالواسطہ۔ ایسا ٹیکس جو براہ راست وصول نہ کیا جائے۔
(Progressive Tax) (Indirect Tax)

ٹیکس متزاہد۔ ایسا ٹیکس جس میں اضافہ ہوتا ہے۔

ٹیکس متناسب۔ ایسا ٹیکس جو مقدار وغیرہ کے مطابق لگایا جائے یا
وصول کیا جائے۔ (Proportionate Tax)

ٹیکسٹ بک۔ (Text Book) (ٹانگ۔ ا۔ مٹ) درسی کتاب۔ نصب کی کتاب۔
ٹیکسٹ بک بورڈ۔ (Text Book Board) (ٹانگ۔ مذ)

وہ ادارہ جو درسی کتابیں تیار کرنا اور منظور کرتا ہے۔

ٹیکسٹ بک کمیٹی۔ (Text Book Committee) وہ کمیٹی
یا جماعت جو درسی کتابیں منظور کرتی ہے۔

ٹیکسٹائل۔ (Textile) (ٹیکس۔ ٹائل۔ ٹیل) (ٹانگ۔ صغ) کپڑے سے متعلق کپڑا۔
ٹیکسٹائل مل۔ (Textile Mill) کپڑے کا کارخانہ۔ کپڑا بنانے والی مل۔

ٹیکسی۔ (Taxi) (ٹیکس۔ سی) (ٹانگ۔ امٹ) کرائے کی موٹر گاڑی۔
ٹیکسن۔ (ٹے۔ کن) (۱۔ مذ) (۱) امٹ جس چیز کی ٹیک لگائی جائے۔ جس کے سہارے

کھڑا ہوا جائے یا بیٹھا جائے۔ اڑھاڑ۔ سہارا۔

ٹیکنسٹا۔ (ٹیک۔ ڈے۔ مٹ) (۱) لگانا۔ رکھنا۔ سہارا لینا (۲) جوئے میں داخل ہونا۔
ٹیکنالوجی۔ (Technology) (ٹیک۔ ٹا۔ لو۔ جی) (ٹانگ۔ ا۔ مٹ) (۱) صنعتی

فنون کا علم (۲) فنون کے ارتقا کا مطالعہ۔

ٹیکنیک۔ (Technique) (ٹیک۔ نیک) (ٹانگ۔ ا۔ مٹ) (۱) فنون کا

(۳) یعنی آنکھ۔

ٹیرھی آنکھ (سے) دیکھنا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) دشمنی یا مخالفت یا بغض و حسد
کے جذبے سے دیکھنا (۲) بگاڑ دیکھنا۔ بھنگی سے دیکھنا۔

ٹیرھی آنکھیں کرنا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) ناراض یا خفا ہونا (۲) بے مروتی دکھانا
(۳) کسی معاملے میں عدم رضامندی ظاہر کرنا۔

ٹیرھی آنکھی بھیرھی نہیں نکلتا۔ (۱۔ محاورہ) اس دنیا میں سیدھی طرح
کام نہیں نکلتا۔ بڑی سے یا اصولوں اور قاعدوں کے مطابق چلنے سے
کامیابی نہیں ہوتی۔

ٹیرھی بائیں۔ (۱۔ محاورہ) اٹھری اٹھری باتیں کرنا۔ ایسی گفتگو جس سے ناراضی
یا بھنگی ظاہر ہو۔

ٹیرھی پوٹی۔ (۱) بانگین کی نشانی (۲) عزور اور زکیر کا اظہار (۳) مسرور لکڑی
رکھی ہوتی ٹوٹی۔

ٹیرھی (ترجیحی) استانا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) بڑا بھلا کہنا (۲) عارفانہ جواب دینا۔
(۳) گت خنی یا سختی سے جواب دینا۔

ٹیرھی جال چیلنا۔ (۱۔ محاورہ) سب کے خلاف چیلنا۔ بڑی رسم
اختیار کرنا۔

ٹیرھی سیدھی۔ (۱۔ امٹ) کڑوی اور میٹھی باتیں۔ کڑوی اور نرم باتیں۔
ٹیرھی کھیر۔ (مٹل) (۱) شکل کام۔ جو کام ہونے کے کسی آدمی نے ایک اندے
سے پوچھا۔ کھیر کھاؤ گے؟ انڈھا پوچھنے لگا کھیر کسی ہوتی ہے؟ آدمی نے

بتایا۔ سفید سفیدی! اندھے نے پوچھا۔ کسی سفید آدمی نے جواب دیا۔
”ایسی جیسے بگلا ہوتا ہے“ اور اپنا ماتھے ٹیرھا کہ بگلے کے ڈھانچے جیسا

بنار دکھایا۔ انڈھا ماتھے کو ٹوٹا رہا۔ پھر بولا۔ ”نہیں بھی! یہ تو ٹیرھی کھیر
ہے ہم جیسے نہیں کھاتی جائے گی۔“

ٹیرھی نگاہ۔ (۱۔ امٹ) تہر کی نگاہ۔ بھنگی کی نگاہ (۲) ترجیحی نظر۔
ٹیرھی۔ (ٹی۔ ڈی) (۱۔ امٹ) ٹڈی۔

ٹیریس۔ (۱۔ امٹ) وہ درجہ زخم یا پھوٹے میں ہوتا ہے۔ ٹیک۔
ٹیریس اٹھنا۔ ٹیریس مارنا۔ ٹیریس۔ (۱۔ محاورہ) درد کرنا۔ ٹیکنا۔ میٹھا میٹھا
درد ہونا۔

ٹیسٹ۔ (Test) (ٹانگ۔ ا۔ مذ) امتحان۔ جانچ بچاؤ۔ آزماتش۔
ٹیسٹ میچ۔ (Test Match) دو ٹیموں کی نمائندہ ٹیموں
(ڈرگٹ۔ ٹائی) کے درمیان مقابلہ۔

ٹیسو۔ (ٹے۔ سو) (۱۔ مذ) (۱) ڈھاک کا زرد دھول (۲) ایک خیالی بہادر کا
مٹی کا موزجہ دہرے کے دونوں میں کڑیوں پر چڑھا کر ہندو جیسے اس کا

گیت گاتے پھرتے ہیں اور خاص دہرے کے دن توڑ پھوڑ کر ختم کر دیتے
ہیں (۳) ٹیسو کا گیت۔

ٹیک۔ (۱۔ مٹ) (۱) سہارا۔ پشتی (۲) کھپا۔ بھم۔ ستون (۳) وعدہ۔ قول۔
قرار (۴) (پوری بولی) ہمد۔ انا (۵) عزت۔ آبرو۔ بھڑ (۶) ٹپ کا

مصرع۔ گیت یا گانے کا وہ ٹکڑا جو بار بار گایا جائے۔
ٹیک دھرنا۔ (۱۔ محاورہ) کوئی کام کرنے پر تڑپنا۔ پکا ارادہ کر لینا۔

ٹیک رہنا۔ (۱۔ محاورہ) بات رہنا۔ بھم رہنا۔ ساکھ قائم رہنا۔ اعتبار رہنا

ظہیر (۲) طرزِ زاد (۳) ہنرمندی - فنِ طریقِ اظہار۔

ٹیک نی شین - (Technician) (ٹیک - نی - شی - ان) ڈانگ - ۱۔ (مذاہرہ) ہنرمند بستی کسی فن کا ماہر۔

ٹیکنیکل - (Technical) (ٹیک - نی - کل) ڈانگ - صفت کسی خاص فن یا صنعت یا علم کے متعلق صنعت و حرفت کا۔

ٹیکنیکل کلر - (Technicolour) (ٹیک - نی - ک - ل) ڈانگ - ۱۔ (مذاہرہ) علم سازی جس میں مختلف رنگ الگ الگ رنگ بک وقت نظر آئیں۔

ٹیک - (Tag) ڈانگ - ۱۔ (مذاہرہ) گھنڈوں دار دروڑا جو دفتری قاتلوں یا ان کے اندر رکھے گئے کاغذات میں پرویا جاتا ہے۔

ٹیلر - (Tailor) (ٹی - لا - و - ا) ڈانگ - ۱۔ (مذاہرہ) مٹی کا بڑا تودہ جھولی پہاڑی - ہٹا ٹیکر۔

ٹیلوری - (Tailoring) (ٹی - ل - گ - گ) ڈانگ - ۴۔ (مذاہرہ) درزی کا کام۔ سینے پر رونے کا کام۔ خیالی۔

ٹیلی برنٹر - (Teleprinter) (ٹی - بی - رن - ٹر) ڈانگ - ۱۔ (مذاہرہ) برقی مشین جس کے ذریعہ پیغامات ٹائپ شدہ تحریریں وصول ہوں۔

ٹیلی پتھی - (Telepathy) (ٹی - پی - پتھی) ڈانگ - ۱۔ (مذاہرہ) روحانی ربط - اشراق۔

ٹیلی فون - (Telephone) (ٹی - فون - ون) ڈانگ - ۱۔ (مذاہرہ) ایک برق طرز آلہ جس کے ذریعہ دور دراز فاصلے تک گفتگو کر سکتے ہیں۔

ٹیلی گراف - (Telegraph) (ٹی - لی - گ - راف) ڈانگ - ۱۔ (مذاہرہ) طرز تاہررتی - تاہررتی کے ذریعہ اطلاع یا خبر بھیجنے کا ساز و سامان۔

ٹیلی گرام - (Telegram) (ٹی - لی - گ - رام) ڈانگ - ۱۔ (مذاہرہ) برقیہ - تاریکی خبر - خبر یا پیغام جو بذریعہ تاہررتی بھیجا گیا ہو۔

ٹیلی وژن - (Television) (ٹی - وی - ژن) ڈانگ - ۱۔ (مذاہرہ) قلم کار یا ریوٹس میں گانے یا لسنے کی آواز کے ساتھ صورت بھی دکھائی دیتی ہے۔

ٹیم - (Team) ڈانگ - ۱۔ (مذاہرہ) بل کرکام کرنے والوں کی جماعت (۲) بل کرکھیلنے والوں کی جماعت یا ٹولی۔

ٹیم ورک - (Team Work) (ڈو کام جو بل کر کیا جائے - متفقہ کوشش - اجماعی عمل۔

ٹیمپل - (Temple) (ٹی - مپل) ڈانگ - ۱۔ (مذاہرہ) مندر - معبد۔

ٹیمپل ٹیم - (Temple Team) (ٹی - مپل - ٹیم) ڈانگ - ۱۔ (مذاہرہ) مندر کے باہر رکھے ہوئے ایک ٹیمپل ٹیمپل کے چنگاری - پر کالہ - آتش۔

ٹین - (Tin) ڈانگ - ۱۔ (مذاہرہ) ایک سینئر نزم و حیات - ٹنگ قلمی - لوہے کی پتلی پتلی چادر جس پر قلمی لکھی جاتی ہے۔

ٹینس - (Tennis) (ٹی - نیس) ڈانگ - ۱۔ (مذاہرہ) ایک کھیل جو جہاں بلنگا کر کیا جاتا ہے۔

ٹینٹ - (Tent) ڈانگ - ۱۔ (مذاہرہ) چھوٹا کھیمہ - ڈیرا - شامیازہ۔

ٹینٹ - (Tent) ڈانگ - ۱۔ (مذاہرہ) چھوٹا کھیمہ - ڈیرا - شامیازہ۔

ٹینٹ - (Tent) ڈانگ - ۱۔ (مذاہرہ) چھوٹا کھیمہ - ڈیرا - شامیازہ۔

ٹینٹ - (Tent) ڈانگ - ۱۔ (مذاہرہ) چھوٹا کھیمہ - ڈیرا - شامیازہ۔

ٹینٹ - (Tent) ڈانگ - ۱۔ (مذاہرہ) چھوٹا کھیمہ - ڈیرا - شامیازہ۔

ٹینٹ - (Tent) ڈانگ - ۱۔ (مذاہرہ) چھوٹا کھیمہ - ڈیرا - شامیازہ۔

ٹینٹ - (Tent) ڈانگ - ۱۔ (مذاہرہ) چھوٹا کھیمہ - ڈیرا - شامیازہ۔

ٹینٹ - (Tent) ڈانگ - ۱۔ (مذاہرہ) چھوٹا کھیمہ - ڈیرا - شامیازہ۔

ٹینٹ - (Tent) ڈانگ - ۱۔ (مذاہرہ) چھوٹا کھیمہ - ڈیرا - شامیازہ۔

ٹینٹ - (Tent) ڈانگ - ۱۔ (مذاہرہ) چھوٹا کھیمہ - ڈیرا - شامیازہ۔

ٹینٹ - (Tent) ڈانگ - ۱۔ (مذاہرہ) چھوٹا کھیمہ - ڈیرا - شامیازہ۔

ٹینٹ - (Tent) ڈانگ - ۱۔ (مذاہرہ) چھوٹا کھیمہ - ڈیرا - شامیازہ۔

ٹینٹ - (Tent) ڈانگ - ۱۔ (مذاہرہ) چھوٹا کھیمہ - ڈیرا - شامیازہ۔

ٹینٹ - (Tent) ڈانگ - ۱۔ (مذاہرہ) چھوٹا کھیمہ - ڈیرا - شامیازہ۔

ٹینٹ - (Tent) ڈانگ - ۱۔ (مذاہرہ) چھوٹا کھیمہ - ڈیرا - شامیازہ۔

ٹینٹ - (Tent) ڈانگ - ۱۔ (مذاہرہ) چھوٹا کھیمہ - ڈیرا - شامیازہ۔

ٹینٹ - (Tent) ڈانگ - ۱۔ (مذاہرہ) چھوٹا کھیمہ - ڈیرا - شامیازہ۔

ٹینٹ - (Tent) ڈانگ - ۱۔ (مذاہرہ) چھوٹا کھیمہ - ڈیرا - شامیازہ۔

ٹینٹ - (Tent) ڈانگ - ۱۔ (مذاہرہ) چھوٹا کھیمہ - ڈیرا - شامیازہ۔

ٹینٹ - (Tent) ڈانگ - ۱۔ (مذاہرہ) چھوٹا کھیمہ - ڈیرا - شامیازہ۔

ٹینٹ - (Tent) ڈانگ - ۱۔ (مذاہرہ) چھوٹا کھیمہ - ڈیرا - شامیازہ۔

ٹینٹ - (Tent) ڈانگ - ۱۔ (مذاہرہ) چھوٹا کھیمہ - ڈیرا - شامیازہ۔

ٹینٹ - (Tent) ڈانگ - ۱۔ (مذاہرہ) چھوٹا کھیمہ - ڈیرا - شامیازہ۔

ٹینٹ - (Tent) ڈانگ - ۱۔ (مذاہرہ) چھوٹا کھیمہ - ڈیرا - شامیازہ۔

ٹینٹ - (Tent) ڈانگ - ۱۔ (مذاہرہ) چھوٹا کھیمہ - ڈیرا - شامیازہ۔

ٹینٹ - (Tent) ڈانگ - ۱۔ (مذاہرہ) چھوٹا کھیمہ - ڈیرا - شامیازہ۔

ٹینٹ - (Tent) ڈانگ - ۱۔ (مذاہرہ) چھوٹا کھیمہ - ڈیرا - شامیازہ۔

ث

ٹے۔ (رع۔ ٹونٹ) اُردو کا چٹھا۔ فارسی کا پانچواں اور عربی زبان کا چوتھا حرف۔ اس کو ٹائے مثلث بھی کہتے ہیں۔ دیگر زبانوں میں نہیں پایا جاتا، حساب اجد میں اس کے ۵۰۰ عدد ہیں۔

ث — ا

ثابت۔ (ثابِت) (رع۔ صفت) (۱) پورا۔ سارا۔ جو ٹوٹا ہوا نہ ہو جس کے سب اعضاء یا ٹکڑے یکجا ہوں (۲) قائم۔ برقرار۔ مستقل۔ جاری رہنے والا (۳) مضبوط۔ پائیدار (۴) مانا ہوا۔ تصدیق شدہ (۵) یقین جس کی تحقیق کی جا چکی ہو۔ (۶) سچا۔ صحیح۔ ٹھیک۔ درست (۷) وہ ستارہ جو گردش نہ کرے (۸) عادلوں نے سال کے مہینوں کو جن تین قسموں میں ثابت، منقلب۔ و ذہبتیں میں تقسیم کیا ہے ان میں سے پہلی قسم کے کہتے ہیں۔ جمع؛ ثوابت۔

ثابت رہنا۔ (۱) (۲) رہنا۔ (۳) بات سے نہ پھرتا (۴) قائم رہنا۔ جسے رہنا ہٹ کرنا

ثابت شدہ۔ (رع۔ صفت) جسے ثابت کیا جا چکا ہو۔ جس کا ثبوت مل چکا ہو۔ یقیناً مصدقہ۔ مستند۔

ثابت قدم۔ (رع۔ صفت) (۱) مستقل مزاج۔ ارادے کا مضبوط۔ جہد کا پکا بات سے نہ پھرنے والا (۲) باحوصلہ (۳) مضبوط۔ قائم۔ مستقل۔

ثابت قدم کو سب جگہ چھٹاؤں۔ (۱) اٹل مستقل مزاج اور حوصلہ مند رہنا۔ جہاں جاتا ہے اپنے لیے جگہ پیدا کر لیتا ہے۔

ثابت قدمی۔ (رع۔ ۱۔ اث) مستقل مزاجی۔ استقلال۔

ثابت کرنا۔ (۱) محاورہ، پایہ ثبوت کو پہنچانا۔ تحقیق کرنا۔

ثابت پھینے۔ لگھڑ پھینے۔ بیٹھ۔ بھاڑوں۔ ان مہینوں کو عادل لوگ عمل پڑھنے کے لیے موافق اور سازگار مہینے خیال کرتے ہیں۔

ثابت نہیں کان بالیوں کا ارمان۔ (مثل) قابلیت کچھ بھی نہیں بڑے کام کرنے کا شوق۔ جب کوئی چھوٹی حیثیت کا آدمی بڑے مہم سے یا منصب کی خواہش کر لے تو اس پر یہ مثل کہتے ہیں۔

ثابت ہو جانا۔ ثابت ہونا۔ (۱) محسوس ہو جانا۔ ثبوت پل جانا (۲) پورا ہو جانا۔ ٹوٹی ہوئی چیز جوڑ جانا۔

ثابوتی۔ (ثابوتی، ثبات) (ق)

ثاقب۔ (ثاقب) (رع۔ صفت) چمکلا۔ روشن۔ چمک دار۔ چمکنا ہوا۔ درخشاں۔

ثالث۔ (ثالث) (رع۔ ۱۔ مذ) (۱) بیچ۔ پچھلایا نصف۔ (۲) تیسرا۔

ثالث بالخیر۔ ایسا بیچ جو کسی کی طرف داری یا روعایت نہ کرے بغیر جاننا دار

ثالث ثلاثہ۔ (۱) مین میں کا تیسرا (جیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ خدا، روح القدس اور سچ تینوں محبوب ہیں)

ثالث حصری۔ ایسا ثالث جس کو ذریعہ میں نے معاملے کے فیصلے کا پورا اختیار دے دیا ہو۔

ثالث نامہ۔ (قانونی اصطلاح) بیچ کا لکھا ہوا فیصلہ۔ وہ کاغذ جس میں

ث ب

ثابت۔ (ث۔ ثبات) (رع۔ ۱۔ مذ) (۱) قیام۔ قرار (۲) پائیداری۔ مضبوطی (۳) ثابت قدمی (۴) ارادہ۔ قصد۔

ثبات رائے۔ (رع۔ ۱۔ مث) رائے کی مضبوطی یا پختگی۔ استحکام رائے۔

ثبیت۔ (رع۔ ۱۔ مث) (۱) نقش (۲) تحریر۔ نوشتہ۔

ثبوت کرنا۔ (مض۔ مرکب) (۱) دستخط کرنا (۲) درج کرنا۔ لکھنا۔ تحریر کرنا (۳) ہر لگانا۔

ثبوت۔ (ث۔ ثبوت) (رع۔ ۱۔ مذ) (۱) دلیل۔ سچائی (۲) گواہی دلو کر ثابت کرنا۔

شہادت۔ گواہی (۳) دوام۔ قیام (۴) مضبوطی۔ پائیداری۔

ثبوت استحقاق۔ (رع۔ ۱۔ مذ) حق دار ہونے کا ثبوت۔

ثبوت بدیہی یا بادی النظر۔ (رع۔ ۱۔ مذ) ایسا ثبوت جو ظاہر میں صحیح معلوم ہو۔

ثبوت تردیدی۔ (رع۔ ۱۔ مذ) ایسا ثبوت جو گواہی کو جھٹلانے کے لیے پیش کیا جائے۔

ثبوت ضمنی۔ (رع۔ ۱۔ مذ) وہ ثبوت جو دوسرے کسی ثبوت کے ضمن میں آجائے۔

ثبوت قانونی۔ (رع۔ ۱۔ مذ) قانون کے مطابق۔ دعوے کی تصدیق کی شہادت۔

ثبوت لسانی۔ (رع۔ ۱۔ مذ) زبانی ثبوت۔

ذریعہ۔ کسی شخص کو اپنا ثالث ماننے کا قرار کریں۔

ثالثی۔ (ثالث۔ ثنی) (رع۔ ۱۔ مث) (۱) بیچاوت (۲) کسی معاملے کا فیصلہ کرنے کی کارروائی۔

ثانوی۔ (ثانب۔ ثنی) (وی۔ صفت) (۱) ثانی کی طرف منسوب۔ دوسرے والا۔

دومی۔ سکندری۔ (Secondary)

ثانوی تعلیم۔ (رع۔ ۱۔ مث) وسطانی درجہ کے اُپر کی تعلیم۔ ہائی سکول کی تعلیم۔ (انگلیش) (Secondary Education)

ثانوی مدارس۔ (رع۔ ۱۔ مذ) ہائی سکول۔

ثانی۔ (ثانی۔ ثنی) (رع۔ صفت) (۱) دوسرا (۲) مذ۔ مث) (۱) مانند۔ نظیر۔ مقابل۔ جوڑ۔

ثانی۔ ہم پلہ۔ ہم سر۔

ثانی۔ (رع) دوبارہ۔ مکرر۔

ثانی الحال۔ دوسرے وقت۔ پھر۔ دوسری دفعہ۔ بعد ازاں۔

ثانی ملاحظہ۔ نظر ثانی۔ دوسری دفعہ پڑنا۔

ثانیہ۔ (ثانب۔ ثنیہ) (رع۔ ۱۔ مذ) ہل۔ بیکڈ منٹ کا کاسٹل جھتہ۔ دقیقہ۔

ثابت ہونا۔ (۱) ثبوت پل جانا۔ ثبوت پل جانا۔

ثابت ہونا۔ (۲) پورا ہو جانا۔ ٹوٹی ہوئی چیز جوڑ جانا۔

ثابت ہونا۔ (۳) ثابت ہونا۔ (۱) محسوس ہو جانا۔ ثبوت پل جانا۔

ثابت ہونا۔ (۴) پورا ہو جانا۔ ٹوٹی ہوئی چیز جوڑ جانا۔

ثابت ہونا۔ (۵) ثابت ہونا۔ (۱) محسوس ہو جانا۔ ثبوت پل جانا۔

ثابت ہونا۔ (۶) پورا ہو جانا۔ ٹوٹی ہوئی چیز جوڑ جانا۔

ثابت ہونا۔ (۷) ثابت ہونا۔ (۱) محسوس ہو جانا۔ ثبوت پل جانا۔

ثابت ہونا۔ (۸) پورا ہو جانا۔ ٹوٹی ہوئی چیز جوڑ جانا۔

ثابت ہونا۔ (۹) ثابت ہونا۔ (۱) محسوس ہو جانا۔ ثبوت پل جانا۔

ثابت ہونا۔ (۱۰) پورا ہو جانا۔ ٹوٹی ہوئی چیز جوڑ جانا۔

ثابت ہونا۔ (۱۱) ثابت ہونا۔ (۱) محسوس ہو جانا۔ ثبوت پل جانا۔

ثابت ہونا۔ (۱۲) پورا ہو جانا۔ ٹوٹی ہوئی چیز جوڑ جانا۔

ثابت ہونا۔ (۱۳) ثابت ہونا۔ (۱) محسوس ہو جانا۔ ثبوت پل جانا۔

ثابت ہونا۔ (۱۴) پورا ہو جانا۔ ٹوٹی ہوئی چیز جوڑ جانا۔

ثابت ہونا۔ (۱۵) ثابت ہونا۔ (۱) محسوس ہو جانا۔ ثبوت پل جانا۔

ثابت ہونا۔ (۱۶) پورا ہو جانا۔ ٹوٹی ہوئی چیز جوڑ جانا۔

ثابت ہونا۔ (۱۷) ثابت ہونا۔ (۱) محسوس ہو جانا۔ ثبوت پل جانا۔

ثابت ہونا۔ (۱۸) پورا ہو جانا۔ ٹوٹی ہوئی چیز جوڑ جانا۔

ثابت ہونا۔ (۱۹) ثابت ہونا۔ (۱) محسوس ہو جانا۔ ثبوت پل جانا۔

ثابت ہونا۔ (۲۰) پورا ہو جانا۔ ٹوٹی ہوئی چیز جوڑ جانا۔

ثابت ہونا۔ (۲۱) ثابت ہونا۔ (۱) محسوس ہو جانا۔ ثبوت پل جانا۔

ثابت ہونا۔ (۲۲) پورا ہو جانا۔ ٹوٹی ہوئی چیز جوڑ جانا۔

ثابت ہونا۔ (۲۳) ثابت ہونا۔ (۱) محسوس ہو جانا۔ ثبوت پل جانا۔

ثابت ہونا۔ (۲۴) پورا ہو جانا۔ ٹوٹی ہوئی چیز جوڑ جانا۔

ثابت ہونا۔ (۲۵) ثابت ہونا۔ (۱) محسوس ہو جانا۔ ثبوت پل جانا۔

ثابت ہونا۔ (۲۶) پورا ہو جانا۔ ٹوٹی ہوئی چیز جوڑ جانا۔

ثابت ہونا۔ (۲۷) ثابت ہونا۔ (۱) محسوس ہو جانا۔ ثبوت پل جانا۔

ثابت ہونا۔ (۲۸) پورا ہو جانا۔ ٹوٹی ہوئی چیز جوڑ جانا۔

ثابت ہونا۔ (۲۹) ثابت ہونا۔ (۱) محسوس ہو جانا۔ ثبوت پل جانا۔

ثابت ہونا۔ (۳۰) پورا ہو جانا۔ ٹوٹی ہوئی چیز جوڑ جانا۔

ثبوتِ مسل - (ع۔ ا۔ مذ) جو ثبوتِ مقدمے کی مندرجہ کارروائی سے دیا جائے۔

ش۔ ر

ثروت - (ث۔ رُوت) (ع۔ ا۔ مذ) مال دولت کی فراوانی۔ توکلگی۔ دولتندی (۲) اختیار حکومت۔ رُخ۔
ثریا - (ث۔ ر) (ع۔ ا۔ مذ) (۱) زمین کے نیچے کی مٹی (۲) گیلی مٹی۔
ثریا - (ث۔ ر) (ع۔ ا۔ مذ) بھنگا۔ وہ سات ستارے جو پاس پاس رہتے ہیں۔ پردین۔ سات ہسیلیوں کا بھنگا۔
ثریا جاہ - (ع۔ ص) بلند پایہ۔ عالی مرتبہ۔

ش۔ ع

ثعبان - (ع۔ مذ) اڑھار۔ بڑا سانپ۔
ثعلبِ مصری - (ع۔ لب۔ م۔ ص) (ع۔ ا۔ مذ) ایک درخت کی بڑھو کوٹری کے نیچے کے شاخہ سے اور اٹھانے اسے منظرِ دہشتی لکھا ہے۔

ش۔ ق

ثقافت - (ث۔ قات) (ع۔ ا۔ مذ) ثقہ کی جمع۔ معتبر لوگ۔
ثقافت - (ث۔ قات) (ع۔ ا۔ مذ) (۱) عقلمند ہونا۔ نیک ہونا (۲) تہذیب۔ کچھ۔
ثقالت - (ث۔ قات) (ع۔ ا۔ مذ) (۱) بدہضمی کی وجہ سے طبیعتِ بوجھل ہونا (۲) گرانی۔ بھاری پن۔
ثقافتِ جہت - (ع۔ ا۔ مذ) متانت۔ سنجیدگی۔ قابلِ اعتبار ہونا۔
ثقل - (ع۔ ا۔ مذ) گرانی۔ بوجھ۔ جمع : اثقال۔
ثقلِ سماعت - (ع۔ ا۔ مذ) اوجھل پن کی بیماری۔
ثقلین - (ث۔ ق۔ لین) (ع۔ ا۔ مذ) دونوں جہان۔ انسان اور جن۔
ثقیہ - (ث۔ ق) (ع۔ ص) معتبر۔ معتمد (آدمی)۔ جمع : ثقات۔
ثقبہ بدعاش - (ع۔ ا۔ مذ) جو شخص نیک انسانوں جیسی وضع قطع بنا کر بدعاشی کرے۔
ثقیل - (ث۔ قیل) (ع۔ ص) (۱) ناقابلِ ہضم۔ دیر ہضم (۲) بھاری۔ بوجھل۔ (۳) وہ لفظ جو مشکل سے ادا ہو۔
ثقیف - (ع۔ ص) عقلمند اور چالاک آدمی (۲) بہت کٹھا بر کر۔

ش۔ ل

شلال - (ع۔ ف) تین۔
شلالی - (ث۔ لائی) (ع۔ ص) (۱) تین حروفوں سے مرکب۔ تین گنا۔

ش۔ م

شلت - تین پہلوؤں والا۔
شکت - (ع۔ ا۔ مذ) تیسرا حصہ۔ ایک تہائی۔ ایک خط کا نام جو تین خطوں سے مل کر بنا ہے۔ موجد خواجہ یاقوت نقوی۔

شم - (م۔ م) (ع۔ ح) حرفِ عطف بعد پچھے۔ پھر۔
شمار - (ث۔ مار) (ع۔ ا۔ مذ) نمبر کی جمع۔ پھل۔ میوے۔
شمارہ - (ع۔ ص) عدد۔ اکٹھ۔
شمار - (ث۔ م) (ع۔ ا۔ مذ) (۱) پھل۔ میوہ (۲) پیداوار۔ فائدہ۔ حاصل۔ آمد۔
شمار - (ث۔ م) (ع۔ ا۔ مذ) (۱) پھل۔ میوہ۔ جمع : شمارت۔
شمار - (ث۔ م) (ع۔ ا۔ مذ) (۱) پھل۔ میوہ۔ جمع : شمارت۔
شمس - (ث۔ م) (ع۔ ا۔ مذ) (۱) پھل۔ میوہ۔ جمع : شمارت۔
شمس - (ث۔ م) (ع۔ ا۔ مذ) (۱) پھل۔ میوہ۔ جمع : شمارت۔
شمس - (ث۔ م) (ع۔ ا۔ مذ) (۱) پھل۔ میوہ۔ جمع : شمارت۔
شمس - (ث۔ م) (ع۔ ا۔ مذ) (۱) پھل۔ میوہ۔ جمع : شمارت۔

ش۔ ن

شنا - (ث۔ نا) (ع۔ ا۔ مذ) تعریف۔ شائش۔ مدح۔ حمد و نعت۔ توصیف۔
شنا - (ث۔ نا) (ع۔ ا۔ مذ) تعریف۔ شائش۔ مدح۔ حمد و نعت۔ توصیف۔
شنا - (ث۔ نا) (ع۔ ا۔ مذ) تعریف۔ شائش۔ مدح۔ حمد و نعت۔ توصیف۔
شنا - (ث۔ نا) (ع۔ ا۔ مذ) تعریف۔ شائش۔ مدح۔ حمد و نعت۔ توصیف۔
شنا - (ث۔ نا) (ع۔ ا۔ مذ) تعریف۔ شائش۔ مدح۔ حمد و نعت۔ توصیف۔
شنا - (ث۔ نا) (ع۔ ا۔ مذ) تعریف۔ شائش۔ مدح۔ حمد و نعت۔ توصیف۔
شنا - (ث۔ نا) (ع۔ ا۔ مذ) تعریف۔ شائش۔ مدح۔ حمد و نعت۔ توصیف۔

ش۔ و

ثواب - (ث۔ اب) (ع۔ ا۔ مذ) نیک کام کا بدلہ جو دوسری دنیا میں ملے گا۔
ثواب - (ث۔ اب) (ع۔ ا۔ مذ) نیک کام کا بدلہ جو دوسری دنیا میں ملے گا۔
ثواب - (ث۔ اب) (ع۔ ا۔ مذ) نیک کام کا بدلہ جو دوسری دنیا میں ملے گا۔
ثواب - (ث۔ اب) (ع۔ ا۔ مذ) نیک کام کا بدلہ جو دوسری دنیا میں ملے گا۔
ثواب - (ث۔ اب) (ع۔ ا۔ مذ) نیک کام کا بدلہ جو دوسری دنیا میں ملے گا۔
ثواب - (ث۔ اب) (ع۔ ا۔ مذ) نیک کام کا بدلہ جو دوسری دنیا میں ملے گا۔
ثواب - (ث۔ اب) (ع۔ ا۔ مذ) نیک کام کا بدلہ جو دوسری دنیا میں ملے گا۔

ث۔ ی

ثیاب - (رث۔ یاب) (ع۔ ۱۔ مذ) ثوب کی جمع۔ پہننے کے کپڑے۔ لباس۔ پوشاک
 یارب - (ع۔ صفت) وہ مرد یا عورت جو کنوارا نہ ہو۔
 یلمیہ - (ع۔ ۱۔ مٹ) وہ عورت جو کنواری نہ ہو۔
 یلمیہ - (ع۔ ۱۔ مٹ) رنڈا یا۔

ث۔ کسے تو یہ مثل کہتے ہیں۔
 ثوابت - (رث۔ وا۔ بہت) (ع۔ ۱۔ مذ) ثابت کی جمع۔ وہ ستارے جو گردش
 نہیں کرتے۔
 ثوب - (ع۔ ۱۔ مذ) کپڑا۔ لباس۔ پوشاک۔
 ثور - (ع۔ ۱۔ مذ) آسمان کا دوسرا برج جو گائے کی شکل کا ہے۔ ییل بکرمظہ
 کے ایک پہاڑ کا نام ہے۔

ج

ج - (جہیم) اردو کا ساتواں، فارسی کا چھٹا، عربی کا پانچواں اور ہندی کا آٹھواں حرف۔ حساب الجد میں اس کے تین عدد گنے جاتے ہیں۔ اس حرف کی مذکر تانیث میں اختلاف ہے۔ عربی کے قمری حروف میں شامل ہے۔ اگر اس سے پہلے 'ال' آئے گا تو لام اپنی آواز دے گا جیسے 'بجل'۔ بعض اردو کلمات کے آخر میں آکر ان کو حاصل مصدر یا اسم کیفیت بنا دیتا ہے جیسے گرج۔ پانچ

ج-۱

جہا - [فت۔ امرش] جہا کے کا مفعول (۱) جگہ۔ مقام۔ ٹھکانہ۔ (۲) موقع۔ (۳) گنجائش۔ (۴) جانا کا امر۔
 جہا پاتا کا ام کر۔ (۱) منقولہ جیلے جاؤ۔ اس میں دخل نہ دو۔
 جہا بجا - (۱) ہر جگہ۔ جگہ جگہ۔ ہر کہیں۔ ہر مقام پر۔
 جہا بجا کہنا - (۱) محاورہ) بڑا بھلا کہنا۔ بدنام کرنا۔
 جہا بے جا - (فت)۔ (۱) موقع بے موقع۔ درست نادرست۔ (۲) بڑا بھلا۔
 جہا جا - (۱) منقولہ) ڈور ہو جا۔ چلا جا۔ لغت اور غصے میں کسا جاتا ہے۔
 جہا چلے - (۱) منقولہ) کہیں نہ جا ہیں گے۔
 جہا لینا - (دلتا)۔ (۱) محاورہ) پکڑ لینا۔ بعد میں چل کر ساتھ مل جانا۔
 جہا سے - (۱) سچی بات۔ (۲) برحق بات۔ موقع کی بات۔
 جہا ضرور - (فت)۔ (۱) مذ) پے خانہ۔ ٹہنی۔ بریت اٹھنا۔ (۲) چنانہ۔ بوز
 جہا ضرور نہ ہونا - (۱) محاورہ) قبض ہونا۔
 جہا ضرور نہ چھوٹنا - جہا ضرور نہ چھوٹنا۔ (۱) محاورہ) بے اختیار پاخانہ نکل
 جہا نا۔ (۲) ڈر کے مارے پاخانہ نکل جانا۔
 جہا ضرور میں پانی نہ رکھو اول - (۱) مثل) شدید نفرت ظاہر کرنا۔
 جہا نشین - (۱) صفت) قائم مقام (۲) نائب سلطنت (۳) گدی نشین۔
 ولی عہد۔
 جہا نشین - (فت)۔ (۱) امش) جہا نشین ہونے کا فعل۔ نیابت۔ ولی عہدی۔
 قائم مقامی۔
 جہا نماز - (فت)۔ (۱) مذ) نماز پڑھنے کا فرض مصلیٰ۔
 جہا - [۱] جانا مصدر سے صیغہ امر ہے۔
 جہا آ کرنا - (۱) محاورہ) ٹھہرنا۔ فرونش ہونا۔
 جہا ٹھہرنا - (۱) محاورہ) لڑ پڑنا۔ مقابلہ کرنا۔
 جہا پڑنا - (۱) محاورہ) اچانک کہیں چلے جانا۔ (۲) حملہ آور ہونا۔
 جہا ٹھننا - (۱) محاورہ) قابو میں آنا۔ دھوکے میں آنا۔
 جہا ٹھکانا - (۱) محاورہ) اچانک کسی جگہ پہنچ جانا۔
 جہا لہنا - (۱) محاورہ) ٹھہرنا۔ قیام کرنا۔
 جہا ٹھننا - (۱) محاورہ) زبردستی داخل ہو جانا۔
 جہا لہنا - (۱) محاورہ) پیچھے سے آکر مل جانا۔

جھا کلنا - (۱) محاورہ) اتفاقاً مابیننا۔
 جھا گورا کے سائیاں مار نہ سا کے کوئے۔ (مثل) جس کو خدا پچھائے لے
 کوئی نہیں مار سکتا۔ جسے خدا رکھے اسے کون پچھئے۔
 جھاٹ - (۱-۱۰) مذ [۱] مویشی کے منہ پر باندھنے کا چھینکا۔ (۲) میووں پر ٹلنے
 لگا جانا۔ [موتش] (۳) ایک قسم کی گھاں۔
 جھاٹ - [ق]۔ (۱) مذ] جواب۔
 جھاٹ - (Job) [انگ] امرش] کار خدمت۔ فرض منصبی آسانی۔
 جھاٹ ڈنک - (Job Work) بھٹکل کام متفرق کام۔ جس کی
 اجرت فوراً دے دی جاتی ہے۔
 جھا پر - (جھا پر) [ع]۔ صفت) [۱] جبر کرنے والا۔ ظالم۔ (۲) خود سر۔
 مطلق الننان۔ مردم آزار۔ زیادتی کرنے والا۔ بد مزاج۔
 جھا بول - (جھا بول) [ق]۔ (۱) مذ] جواب کی جمع۔
 جھا بھڑھنا۔ (جھا بھڑھنا) [۵] مص [۱] ٹکرانا۔ ٹکرینا۔ (۲) مقابلہ کرنا۔ (۳) لڑ
 جانا۔
 جھا بھٹی - [۵] [۵] بیزاری، ناپسندیدگی یا شکایت کا کلمہ۔
 جھا پ - [۵]۔ (۱) امش و مذ] وظیفہ۔ ورد۔ پاتھ۔
 جھا پ کے پرتے پاپ۔ یہ سمجھ کر گناہ کرنا کہ عبادت کی وجہ سے معاف
 ہو جائیں گے۔
 جھا یا - [۵]۔ (۱) مذ] بچہ بھیننا۔ (۲) بچے کی پیدائش یا زنگی۔
 جھا پانی - [جا۔ پا۔ نی] [ا۔ ر]۔ صفت]۔ جہا پان سے نسبت رکھنے والا (مونش)
 جہا پانی زبان۔
 جھا ت - [۱-۵]۔ (۱) امش [۱] ذات (۲) قوم۔ فرقہ۔ قبیلہ۔ جماعت۔ (۳) نسل۔
 جھا ت پات - (۱-۵)۔ (۱) مذ] حسب نسب۔ ذات۔ پات۔ (۲) نسل۔
 (۳) برادری۔
 جھا ت پات پوچھ نہ کوئے، ہر کو جھجے سوہر کا ہونے۔ خدا کے ہاں
 ذات پات کی کوئی پریش نہیں جو خدا کی عبادت کرتا رہے وہ خدا
 کو پیارا ہوتا ہے۔
 جھا رہنا - [۵]۔ (۱) مص] [۱] کھو جانا۔ گم ہو جانا۔ (۲) پھیرے کرنا۔ (۳) بالکل ڈور
 ہو جانا۔ (۴) رفع ہو جانا۔ (۵) مرجانا۔
 جھا تڑا - (جھا تڑا) [ا]۔ (۱) امش] [۱] مقدس مقامات کی زیارت کے
 لئے سفر تیرھ کو جانا (۲) مذہبی جلوس (۳) زیوارہ۔ (۴) میل جول۔ (۵)

جادو بوجینا۔ (جا۔ و۔ بوج۔ نا) [اُر مہص] (۱) پکڑ لینا۔ (۲) کھڑک لینا (۳) ناجائز فائدہ اٹھانے کی نیت سے گھبرنا۔

جادو۔ [فت۔ اذ۔ مذ] ۱۔ منتر۔ افسوں۔ سحر۔ ٹونا (۲) اثر۔ تاثیر۔ کشش۔ جادو اُٹارنا۔ (۱) محاورہ) جادو منتر کا اثر دور ہونا۔

جادو اُتار۔ (فت۔ ۱۔ صفت) جس کا اثر فوراً ہو۔ جو ٹونا کا رگڑ ہو۔

جادو اُکٹ دینا۔ (۱) محاورہ) ایسا منتر پڑھنا ایسا افسوں پھونکنا کہ جادو کا اثر جادو کرنے والے پر ہو۔

جادو اُٹھانا۔ (۱) محاورہ) جادو کا اثر اسی پر ہونا جو جادو کر رہا ہو۔

جادو بھری آواز۔ (۱) (مشت) موٹا آواز

جادو برحق، کرنے والا کافر۔ (۱) محاورہ) جادو کے ثبوت میں کرنے والے کی مذمت میں کہا جاتا ہے۔

جادو بیان۔ (فت۔ ۱۔ صفت) جس کی بات، تقریر یا کلام میں تاثیر ہو۔ جو موثر انداز سے بیان کرے۔ سحر لیسان۔

جادو پڑھ کر ماش مارنا۔ (۱) محاورہ) ماش کے دانے پر منتر پڑھ کر مانا۔ (جادو کروں کا ایک عمل)۔

جادو بلیط جانا۔ (۱) محاورہ) جادو منتر کا اُٹا اثر ہونا۔

جادو ٹونا۔ (فت۔ ۱۔ مذ) افسوں۔ سحر۔ منتر۔

جادو جگانا۔ (۱) محاورہ) جادو اُڑانا۔ جادو کا عمل کرنا۔ (۲) جادو قازہ کرنا۔

جادو جیلانا۔ (۱) محاورہ) جادو کرنا منتر پڑھنا۔

جادو جینلنا۔ (۱) محاورہ) سحر کا اثر ہونا۔

جادو ڈالنا۔ (۱) محاورہ) کسی کو اپنا بنا لینا (۲) فرماں بردار یا مرید کر لینا۔ (۳) اثر میں لے لینا۔

جادو فر۔ (فت۔ صفت) جس کی تحریر میں جادو وصیا اثر ہو۔

جادو کا پکٹلا۔ (۱) (مذ) (۱) اس انسان یا حیوان کی اُٹے کی صورت جس پر جادو کرنا ہو۔ (۲) کہتے ہیں اس پتے پر کیے گئے عمل کا اثر اس کے ہم شکل پر ہوتا ہے (۲) معشوق یا محبوب جو عاشق پر اپنا جادو چلانا ہے۔

جادو کی موٹھ۔ ایک قسم کا منتر جس سے انسان مر جاتا ہے۔

جادو کرنا۔ (۱) محاورہ) ٹونا کرنا۔ افسوں کرنا۔ سحر کرنا

جادو کی نظر دنگا۔ (۱) محاورہ) پرکشش نگاہ معشوق کی تسخیر کرنے والی نظر۔

جادو کر۔ (۱) (مذ) جادو کرنے والا۔ ساحر۔ سیانا (۲) جس کی باتوں میں اثر ہو۔ (۳) کاریگر۔

جادو کرنی۔ (۱) (مشت) جادو کرنی تاثیر پٹ۔

جادو گری۔ (۱) (صفت) (۱) جادو کرنے کا فن۔ جادو کا علم۔ ساحری۔

جادو نظر۔ جادو نفس۔ (۱) محاورہ) جادو نگاہ معشوق۔

جادو نگار۔ (۱) (صفت) جس کی تحریر میں ڈوبی ہوئی ہوتی ہو۔

جادو نہ چڑھ پڑھ بولے۔ (مشل) بات وہ جس کا مخالفت بھی اقرار

ذریعہ معاش۔ (۴) رکھ و رواج۔ (۵) آمد و رفت۔

جانتری۔ (جانت۔ رتی) [۱-۵] [مذ] جانتا یا تیر پھر جانے والا۔ (۲) ناز (۲) مسافر (۳) راہ رو۔ لہ گزر۔

جانک۔ (جانت۔ نمک) [س-۱-۵] [مذ] بچے کی پیدائش کی ایک رسم۔ (۲) پیدائش۔ ولادت۔ (۳) جنم پیزی۔ (۴) فقیر۔ سادھو۔

جانی۔ (جانی۔ نی) [س-۱-۵] [مذ] ذات۔ دیکھئے جانت۔

جانی دنیا دیکھنا۔ (مشل) حالات یا زندگی کا بھر دوسرے ہونے کی وجہ سے کسی ضروری کام کو نسا دینا۔

جانے جانتے۔ [۵] چلے چلتے۔ رخصت ہونے کے موقع پر (۲) رفتہ رفتہ۔ چلتے چلتے۔

جانت۔ [۱-۵] [مذ] ایک ذات جس کا پیشہ کاشتکاری ہے

(۲) اس قوم یا ذات کا ایک فرد (۳) سیدھا اور پھولا بھالا آدمی۔

جانت سے جانت نیرے نیرے کھاٹ۔ پتلی رے پتلی تیرے سر پر

کو لہو نمک نونہا ہی نہیں تو کیا ہوا بوجھوں تو مرے گا۔ (۱) (مشل)۔

نئے سنی اور مصل بات کے موقع پر بولتے ہیں۔

جانت کے سن جانتی یا ہی کا دل میں رہنا، اُڑنٹ بلیکے گئی

تو بان ہاں ہی کہنا۔ (مشل) جن لوگوں میں رہنا، انہیں کی ہاں میں ہاں ملانا عقلمندی ہے۔

جانت مرانت جانتے جب نیرے میں ہو جائے۔ (۱) (مشل) نزلتی کے مرجانے کے بعد بھی خط و رہت ہے۔

جانت نہ جانے کی گنج اور جینا نہ جانے باہ۔ جانت کے مر گھونٹرا

اور جینے کے سر چیاہ۔ (۱) (مشل) جانت بھی بات کو نہیں جانتا اور چنا سخت شک ہوتا ہے۔ جانت ہونے سے درست ہوتا ہے اور جینے کا کر چیا چہرہ جانتے تو بہتر ہے۔

جانت کی پٹی برہمن کے گھرائی۔ (مشل) کم حیثیت انسان کا خاندان

آدیوں جی عزت پانا۔

جانتھ۔ [۱-۵] [مذ] (۱) کو لہو یا گنٹ بلیکے کی نشین کا دھرا۔ (۲) وہ لٹھ جو ہند کسی تالاب میں کسی دیوتا کے نام پر گاڑتے ہیں۔

جانتیر۔ (ع۔ مشت) (۱) اندھی (۲) زانو کے بل بیٹھنے والی۔ (۳) قرآن مجید کی ایک صورت کا نام۔

جانت۔ (جانت۔ جنت) [۱-۵] [مذ] (۱) جیم کی نئی جو جیوں کو اس لئے پڑھنا جانی ہے کہ جیم کو دوسرے حرفوں کے ساتھ ملانا سیکھیں۔

جانت۔ (جانت۔ جنت) [ت-۱-۵] [مذ] (۱) چھپا ہوا یا بیل بوٹے دار کپڑا۔ چھاپے کا فرش۔

جانت۔ (ت-۱-۵) [مذ] (۱) ظلم و ستم۔ (۲) رنج و الم (۳) ضرورت۔ اختیار۔

جانت۔ (جانت۔ چک) [۱-۵] [مذ] (۱) جاننے والا (۲) درخواست دہندہ۔ (۳) ٹانگے والا بھکاری۔ (۴) سازندہ۔ ڈوم۔ بھات۔ مرانی۔

جانت۔ (جانت۔ ٹک) [۱-۵] [مذ] (۱) جیلے جانا۔ کسی جگہ موجود نہ رہنا۔ کبھی نہ جانا۔ (۲) یعنی جانے کا کوئی امکان ہی نہیں۔

کرے۔ تدمیر وہ جو لگا کر ہو کے رہے۔
 جا دوہنسی۔ (جا۔ دو۔ بن۔ ہنسی) [۱-۵] مذ [چندر بنی راجپوتوں کے خاندان کی ایک شاخ۔ کرن جی اسی خاندان سے تھے۔
 جاوہ (جا۔ وہ۔) [ع۔ ۱-۱] مذ [۱] راستہ۔ راہ۔ سڑک۔ پگ ڈنڈی (۲) طریقہ۔ رواج۔ رسم۔ (عربی میں بتشدید وال مفتوح۔ فارسی اور اردو میں بتقیف وال۔)
 جاوہ اطاغت سے قدم باہر رکھنا۔ (۱- محاورہ) سرکشی کرنا۔ فریاداری سے انکار کرنا۔
 جاوہ پیما۔ (د۔ صفت) راستہ چلنے والا۔
 جاوہ سفتیم۔ (د۔ صفت) سیدھا راستہ۔ لاؤ حق۔
 جاوہب (جا۔ ف۔ ب) [ع۔ صفت] جذب کرنے والا۔ جوس لینے والا۔ (۲) پرکشش۔ (۳) مذ [کڑا] وہ کاغذ جو سیاہی چوس لے۔ سیاہی چٹ۔
 جاورنگ پلیر۔
 جاوہب (جا۔ ف۔ ب) [ع۔ صفت] جذب کرنے والی۔ (۲) کشش۔ تاثیر۔ محبت (۳) حسن خوبصورتی۔ (۴) فریفتگی۔ (۵) قوت کے ساتھ کھینچنے کی طاقت۔ ایک قوت جو اعضا میں موجود ہے اور اپنے موافق مادہ کو جذب کرتی ہے۔
 جاوہر (ع۔ ۱-۱) مذ [۱] پڑوسی۔ ہم سایہ (۲) لفظ کے آخری حرف پر زیر یا کسرہ دینے والا۔ (۳) جوش۔ تیزی۔ تندہی۔ زور۔
 جاوہرور۔ (۱) کھینچنے والا اور وہ جو کھینچے (۲) وہ حرف جو زیر یا کسرہ دے اور وہ حرف جس پر زیر یا کسرہ دیا جائے۔
 جاوہرین۔ (ع۔ صفت) وہ ہم سایہ جس کی جائیداد یا مکان حق شفع کی بہتری جائیداد کے متعلق ہو۔
 جار۔ (Jar) [انگ۔ ۱-۱] مذ [مٹی یا شیشے کا مرتبان۔
 جار جریٹ (Georgette)۔ (جا۔ جریٹ) [انگ۔ ۱-۱] مذ [باریک ریشمی کپڑا جس کے دوپٹے وغیرہ بنائے جاتے ہیں۔
 جارح۔ (جا۔ یح) [ع۔ صفت]۔ لاشتر لگانے والا۔ زخمی کرنے والا۔ (۱) مذ حملہ کرنے والا۔ حملے میں پہل کرنے والا۔
 جارحانہ۔ (جا۔ ر۔ حانہ) [ع۔ صفت] جس سے زخم لگے یا نقصان پہنچے۔ (۲) آگے بڑھنے والا۔ (۳) شدت کا۔
 جارحہز۔ (جا۔ ر۔ حہز) [ع۔ صفت] ۱- مذ و صفت [۱] زخم کرنے والی چیز۔ (۲) شکاری جانور۔ (۳) انسانی عضو جسے ہاتھ پاؤں وغیرہ جمع ہوں۔
 جارحیت۔ (جا۔ ر۔ حہز) [ع۔ صفت] ۱- مذ [۱] دوسرے ملک پر بلاوجہ حملہ ناجائز چڑھائی۔
 جاروب۔ (جا۔ روب) [د۔ صفت] ۱- مذ [جھاڑو۔ بیماری۔
 جاروب کش۔ (د۔ صفت) جھاڑو دینے والا۔ خاکروب۔ بھنگی۔ ہمتز۔
 جاروب کشی۔ (د۔ صفت) ۱- مذ [جھاڑو دینا۔ خاکروب کا کام۔ جھاڑو دینے کا پیشہ۔
 جاری۔ [ع۔ صفت] [۱] رواں۔ بہتا ہوا۔ (۲) بڑھتا ہوا۔ (۳) راجح الوقت

مروجہ۔ (۴) لگا تار مسلسل۔ برابر۔ صادر۔ متصل۔
 جاری شدہ۔ (۱) جاری کیا ہوا۔ (۲) نافذ۔ راجح۔
 جاریر۔ (جا۔ ر۔ یر) [ع۔ ۱-۱] مذ [۱] لاڈلی۔ باندی۔ کینز۔ داسی۔ (۲) کشتی۔ (۳) آب رواں۔ (۴) نعمت خدا داد۔
 جارٹرا۔ (ع۔ ۱-۱) مذ [۱] سردی۔ خشکی۔ ٹھنڈ۔ (۲) سردی کا موسم۔ (۳) بخار۔
 تیب لڑہ۔
 جاٹا پڑنا۔ (۱- محاورہ) سردی پڑنا۔ سردی کا زور۔ سردی چمکنا۔
 جاٹا چڑھنا۔ (۱- محاورہ) کپکپی لگنا۔ سردی کے ساتھ بخار چڑھنا۔
 جاٹا ڈوٹی سے جانا ہے یا ڈوٹی سے۔ (مثلاً) جاٹے میں آدی اسی حالت میں گرم رہتا ہے جب لمحات اوڑھے ہوئے ہو یا ربوی کے ساتھ سو رہا ہو۔
 جاٹا اٹھانا۔ (۱- محاورہ) سردی برداشت کرنا۔
 جاٹا لگنا۔ (۱- محاورہ) سردی یا ٹھنڈ معلوم ہونا۔ ٹھنڈ لگنا۔
 جاٹا ماہ نہ پوہ۔ جاٹا ہوا کا ہوا۔ (مثلاً) جاٹے کے لیے ماگھ پوس (جو سردی کے پھینے ہوتے ہیں) کی قید نہیں بلکہ اصل جاٹا اس وقت پڑتا ہے جب سردیوں میں ہوا تیز چلنے لگے۔
 جاٹے کی چاندنی۔ (۱- صفت) بے فائدہ چیز۔
 جاڑ۔ (Jazz) [انگ۔ ۱-۱] مذ [ایک طرح کا نغمہ اور ناچ۔
 جاڑم۔ (جا۔ ز۔ م) [د۔ صفت] ۱- مذ [دیکھیے جامع۔
 جاڑم۔ (ع۔ ۱-۱) صفت [جا۔ ز۔ م] [۱] جزم دینے والا۔ متحرک حرفت کو ساکن کرنے والا۔ (۲) مادہ مضبوط کرنے والا۔
 جاڑوس۔ (جا۔ سوس) [ع۔ ۱-۱] مذ [خیر۔ راز خور۔ بزرگ۔ خفیہ پولیس۔ وہ شخص جس کا سرکاری راز دوسرے ملک میں پہنچانے۔
 جاڑوسی۔ (جا۔ سوس) [ع۔ د۔ صفت] ۱- مذ [مخبری۔ جھید معلوم کرنا۔ راز جوئی۔
 جا کا لامنہ کر۔ (۵) کلمہ متغیر] دہرہ ہوا۔ جو جی چلے کر۔ (غصے کا اظہار)
 جا کٹ۔ (جا۔ کٹ) [انگریزی (Jacket) کا بگاڑ۔ ۱- صفت] جھوٹا کوٹ۔ کمری۔ کڑتی۔ نیمہ آستین۔
 جا کڑ۔ (جا۔ کڑ) [ع۔ ۱-۱] مذ [کوئی چیز جو اس شرط پر خریدی جائے کہ پسند آئی تو رکھی جائے گی ورنہ واپس کر دی جائے گی۔ (۲) واپسی کی شرط پر خریدی ہوئی چیز۔
 جا کڑ بھی۔ (۵-۱) صفت] وہ بھی جس میں واپسی کی شرط والی بکری کی زیادداشتیں لکھی جائیں۔
 جا کھن۔ (جا۔ کھن) [ع۔ ۱-۱] صفت] وہ کھلی جس پر کتوں کی بنیاد رکھنے ہیں۔ کتوں کا چاک۔
 جاکی۔ (جا۔ کی) [انگ۔ ۱-۱] مذ [پیشہ ور۔ چابک سوار۔ کھڑو ڈوڑیں کھوڑے پر سوار ہونے والا۔
 جاگ۔ (۵-۱) صفت] [۱] جاگنا۔ شب بیداری۔ رت جگا (۲) بے خوابی (۳) ہوشیاری۔ (۴) بھاٹ قوم کا لقب۔ (۵) وہ آگ جس سے

جال چھینکنا۔ (۱- محاورہ)۔ (۱) پھلیاں پکڑنے کے لیے پانی میں جال ڈالنا (۲) کسی کو پھانسنے کے لیے چال چلانا۔
جال دار۔ (۱) پھنڈے دار۔ حلقوں والا۔ جس میں جالی ہو۔ (۲) مہل، نہیں سکھ یا کوئی اور ایسا نفیس کپڑا جس پر جالی کی شکل میں نفیس سلی بنٹے بنے ہوتے ہوں۔

جال لکڑی۔ ایک پودا۔ بلی لوٹن۔
جال لگانا۔ (۱- محاورہ) جانور یا پرندے کو پکڑنے کے لیے جال بچھانا۔
جال مارنا۔ (۱- محاورہ) (۱) جال سے جانور یا پرندے کو پکڑنا (۲) کسی کو فریب دینا۔

جال میں آنا۔ (۱- محاورہ) دھوکہ کھانا۔ دام میں آنا۔ پکڑا جانا۔
جال میں پھنسا۔ (۱- محاورہ) (۱) گرفتار ہونا۔ (۲) دھوکے میں آنا۔
جالا۔ (۱- ۵) [مد] (۱) باریک جھلی یا تار جو کڑی تھتی ہے۔ بنا چنگبوت۔ (۲) گھاس پات یا تڑکریاں باندھنے کا جال۔ (۳) آنکھ کی بیماری (۴) پانی پر جمی ہوئی پیروی۔

جالا پڑنا۔ (۱- محاورہ) آنکھ پر جھلی یا پردہ پڑنا۔
جالا (جالے) لینا۔ (۱- محاورہ) (۱) آنکھ کا جالا چھڑانا۔ (۲) دیواروں پر سے کڑی کے جالے صاف کرنا۔ مارے مارے پھینا۔
جالنا۔ (جال نا) [ق] مص - آ۔ جلانا۔

جالنی۔ (جال نی) [۵- ۱- ۵] [مد] (۱) خاندان کپڑا یا ایسی چیز جس میں سوراخ ہوں۔ حلقہ دار چیز (۲) کشیدہ۔ (۳) لوسے کی باریک تاروں کا بنا ہوا جال جو دروازوں اور کھڑکیوں میں لگایا جاتا ہے۔ (۴) جھلی (۵) نقاب یا بنا ہوا کپڑا جو عورتیں بالوں پر ڈالتی ہیں (۶) چھینکا (۷) پردہ جو آدم کی کیری میں لٹھلی پڑنے سے پڑ جاتا ہے۔ (۸) تھروں پر لگایا جانے والا پتھر یا لکڑی۔ (۹) جالی کا جال (۱۰) سوراخ دار توالی جو چھکوں یا انگلیوں میں رکھ کر نئے کے لیے لگاتے ہیں۔ (۱۱) ٹوک ڈورا۔ (۱۲) سخت ریشے جو کتہ میں پینے کے بعد پڑتے ہیں۔
جالنی پڑنا۔ (۱- محاورہ) آدم کی کیری میں لٹھلی پڑنے سے پہلے ریشہ پیدا ہو جانا۔

جالنی کاڑھنا۔ جالی نکالنا۔ (۱- محاورہ) جالی کا کام کرنا۔ جالی کے کپڑے میں یہی بوٹے کاڑھنا۔
جالنی لوٹ۔ ایک قسم کا باریک انگریزی کپڑا۔ بانی نٹ (Bobbinet) جالی بٹوس۔ (جال نی) [فول] [ع- ۱- ۵] [مد] [اسٹرنڈ تاسٹمڈ یونان ٹیم کے ایک جگہ کا نام جو قرن طبابت میں تمام حکمائے یونان پر فوقیت لے گیا تھا۔ اس کا اصلی نام کلاڈیس کہیں تھا۔
جام۔ [فت- ۱- ۱۰] [مد] (۱) پیالہ۔ گلاس۔ ساغر۔ پیانا۔ شراب پینے کا برتن (۲) آئینہ۔ (۳) امرود (ق)

جام اڑانا۔ جام اڑانا۔ (۱- محاورہ) شراب پی جانا۔ شراب نوشی کرنا۔
جام پر جام چڑھانا۔ (۱- محاورہ) لگانا شراب پینا۔ بکثرت شراب پینا۔

جام میں الام بچنا ہے۔

جاگ اٹھنا۔ جاگ پڑنا۔ جاگ جانا۔ (۱- محاورہ) سوتے سے اٹھ جانا۔
بیدار ہو جانا۔ چونک پڑنا۔ چونک اٹھنا۔
جاگ۔ جاگو۔ [ق]۔ [۱- ۱] [مد]۔ جاگہ۔

جاگت۔ (جاگت) [۵- ۱- ۱] [مد] [مٹ] [بیداری]۔ جاگنا۔ ہوشیاری۔ پروہ دینا۔ حفاظت رکھنا۔ چوکسی۔

جاگنا۔ (جاگ نی) [۵- ۱- ۱] [مد] ہوشیار۔ سیانا۔ بیدار مغز۔ چوکس۔
جاگتا جاو۔ (۱- صفت) ایسا جاو جو پورا پورا اثر دکھائے۔
جاگتے رہنا۔ (۱- محاورہ) بیدار رہنا۔ نہ سونا۔

جاگتے کو جگانا اس کو چھیڑنا ہے۔ (۱- مثل) دانا آدمی کو غفل سکھانا حماقت ہے۔
جاگتے کی کنیا۔ سوتے کا کھڑا۔ (۱- مثل) ہوشیار آدمی فائدہ اٹھاتا ہے غافل نقصان میں رہتا ہے۔

جاگتی جوت۔ (۱- ۵) [مٹ] ظاہر کرنا۔ ناقابل انکار چیز۔
جاگر تھی۔ (جا- گر) [تی] [س] [۱- ۱] [مٹ]۔ دیکھتے جاگت بیباری۔ شعور۔

جاگنا۔ (جاگ نا) [۵- ۱- ۵] [مٹ] بیدار ہونا۔ سوتے سے اٹھنا۔ (۲) ہوشیار ہو جانا۔ متنبہ ہو جانا۔ (۳) روشن ہونا۔ مؤثر ہونا۔ (۴) تازہ ہو جانا۔

جاگو۔ (جاگو) [۵- ۱- ۱] [مد] [شب] بیدار (۲) ہوشیار۔ بیدار مغز۔ (۳) جو جگنے سے فوراً جاگ جائے۔

جاگی۔ (۱- ۵) [مٹ] [ہندو] کا عقیدہ۔
جاگیر۔ (جا- گیر) [فت] [۱- ۱] [مٹ] [۵- ۱] زمین جو بادشاہ یا حکومت کی طرف سے انعام کے طور پر دی جاتی ہے۔

جاگیر دار۔ (فت- ۱- ۱) [مد] وہ شخص جسے حکومت کی طرف سے جاگیر ملے۔ تعلق دار۔

جاگیر داری۔ (فت- ۱- ۱) [مٹ] جاگیر دار کا منصب۔

جاگیر دوام۔ وہ جاگیر جو نسلاً بعد نسل خاندان میں رہے۔

جاگیر خجال۔ منظور شدہ جاگیر۔
جاگیر منصب۔ (فت- ۱- ۱) [صفت] وہ جاگیر جو کسی عہدے کے ساتھ ملے۔

جاگے گا سو پاوے گا۔ سووے گا سو کھوے گا۔ [مٹ] ہوشیار اور بیدار مغز آدمی کامیاب رہے گا۔ غافل ناکام رہے گا۔

جال۔ [س] [۱- ۱] [مد] [۱۱] پھندا۔ دام (۲) سوراخ دار چیز (۳) جالی کا کام جو دروازوں اور کھڑکیوں یا روشن خانوں میں ہو۔ (۴) پیلو کا درخت (۵) باریک کپڑوں پر جالی کی شکل کے سلی بوٹے (۶) جالی دار کھڑکی۔

(۷) پتلا۔ پیٹی۔ پٹکا۔ (۸) جاو۔ طلسم۔
جال بچھانا۔ جال ڈالنا۔ (۱- محاورہ) گرفتار کرنے کی تدبیر کرنا۔ کمرو فریب کا ڈھنگ ڈالنا۔ کسی کو پھانسنے کے لیے فریب کرنا۔

جام پیمیا۔ (ف۔ صفت) پیالہ نمپے والا یعنی شرابی۔
 جام بچہ۔ جام جمشید۔ جام جہاں نما۔ (ف۔ ا۔ مذ) وہ روایتی پیالہ
 جس میں جیشہ نام حالات کا عکس دکھایا جاتا تھا۔
 جام چڑھانا۔ (ا۔ محاورہ) شراب پینا۔ شراب کا پیالہ حلق میں اُتدیلنا۔
 جام چلنا۔ (ا۔ محاورہ) شراب کا دور پلنا۔
 جام خانا۔ (ف۔ ا۔ مذ) کشیش محل۔ وہ عمارت جس کے کمروں کے اندر
 آئینے لگے ہوں۔
 جام سفال۔ (ف۔ ا۔ مذ) مٹی کا پیالہ۔
 جام اصحت پینا۔ (ا۔ مذ) یورپ وغیرہ میں دستور ہے کہ اپنے دوستوں
 ماکوں یا مشاہیر کی صحت سلامتی اور کامیابی کے لیے محفلوں میں جام شراب
 پیتے ہیں۔
 جام لبریز ہونا۔ (ا۔ محاورہ) پیالہ بھر جانا۔ قریب لگ بھگ ہونا۔
 جام۔ (Jam) [آگ۔ ا۔ مذ] (۱) مریا (۲) راب۔
 جام۔ (۱-۵) (مذ) (۱) میٹھا۔ فرزند۔ (۲) بیج۔ تخم (۳) مہر۔
 جام پھل۔ (۵-۱) مذ [ایک پھل جو سیب کے برابر ہوتا ہے اور دروڑوں
 میں کام آتا ہے۔
 جام خانہ۔ (ق۔ ا۔ مذ) بڑا قابیل۔
 جامد۔ (جا۔ بد) [ع۔ صفت] (۱) جما ہوا۔ (۲) ٹھوس۔ (۳) پتھر۔ بے حس و
 حرکت۔ (۴) آسم جس سے نہ کوئی لفظ نکلے اور نہ وہ کسی لفظ سے
 نکلا ہو۔
 جامدار۔ دیکھیے جامد وار۔
 جامدانی۔ (جام۔ دانی) [ف۔ ا۔ مذ] جامد دانی کا مخفف۔ (۱) کرکھا ہوا
 پھولدار کپڑا۔ (۲) کپڑوں کی پٹی (۳) چمچے کا صندوق جس میں
 پینے کے کپڑے رکھتے ہیں (۴) شیشے یا ابرک یا کاغذ کی چھوٹی سی صندوقچی
 جس میں بچے محرم کے دلوں میں گونا گونا بھر رکھتے ہیں۔
 جامع (جا۔ بیع) [ع۔ صفت] (۱) جمع کرنے والا۔ تکمیل کرنے والا۔ (۲) مکمل
 حامل۔ جسے کبیر پورا۔ (۳) وہ مسجد جس میں نماز جمعہ پڑھی جائے۔
 جامع العلوم۔ (ع۔ ا۔ صفت) انسانی کلویڈ یا۔ مخزن العلوم۔ وہ کتاب
 جس میں تمام علمی و فنی معلومات درج ہوں۔
 جامع الکمالات۔ (ع۔ صفت)۔ (۱) جس میں تمام خوبیاں جمع ہوں (۲)
 جو تمام علوم و فنون کا ماہر ہو۔
 جامع اللغات۔ (ا۔ صفت) مکمل لغت جس میں کسی زبان کا ہر لفظ منجائے۔
 جامع المتعزیزین۔ (ع۔ ا۔ ف۔ صفت) پچھڑوں کو طرانے والا۔ مجازاً
 خدا۔
 جامع مسجد۔ (ع۔ ا۔ صفت) وہ بڑی مسجد جس میں نماز جمعہ ہوتی ہے۔
 شہر کی سب سے بڑی مسجد۔
 جامدعہ۔ (جا۔ م۔ عمد) [ع۔ ا۔ صفت] دارالعلوم۔ یونیورسٹی۔ درس گاہ۔
 جام بیت۔ (جا۔ م۔ عی۔ بیت) [ع۔ ا۔ صفت] جمع گیری۔ جس میں سب
 کچھ اکٹھا ہو۔ کامیبت۔

جاہلی۔ (جا۔ م۔ گی) [ق۔ ا۔ مذ] ہندوؤں کا توڑا۔
 جاہل۔ (جا۔ م۔ ن) [ع۔ ا۔ صفت] (۱) اُدوسے دنگ کا ایک کیلا پھل اور
 اس کا درخت۔ (۲) وہ دہی یا چھاپھر جسے دہی جمانے کے لیے استعمال
 کرتے ہیں۔
 جاہر۔ (جا۔ م۔ ز) [ف۔ ا۔ مذ] (۱) پوشاک۔ لباس۔ پیراہن۔ (۲) ایک گھیرا
 چوغہ نما لباس جو دور قدیم میں اہل وبارہ پہنا کرتے تھے۔
 جاہر احرام۔ (ع۔ ا۔ مذ) وہ لباس جس کو حاجی حج سے پہلے خاص مقام سے
 پہن لیتے ہیں۔
 جاہر پوش۔ (ف۔ ا۔ صفت) لباس پہننے ہوئے۔
 جاہر تلاشی۔ (ا۔ صفت) لباس کی تلاشی۔ طومر یا مجرم کو جیب پکڑتے
 ہیں تو ان کے لباس کی تلاشی لی جاتی ہے۔ جسے جاہر تلاشی کہا جاتا ہے۔
 جاہر خانہ۔ کپڑے رکھنے کی الماری یا صندوق وغیرہ۔
 جاہر دار۔ (۱) لباس وغیرہ کا منظم۔ داروغہ لباس۔
 جاہر زریب۔ (ف۔ صفت) وہ مرد یا عورت جس کے جسم پر ہر طرح کا
 لباس بھلا معلوم ہو۔
 جاہر قطع کرنا۔ (ا۔ محاورہ)۔ (۱) کپڑے کو جلسے کی شکل میں کترنا۔ (۲) کسی
 صفت یا عیب میں کامل کرنا۔
 جاہر ندامت وامن از کجا آرم۔ (ف۔ بشل) اصل چیز ہی نہیں ہے
 فروعات کا کیا ذکیر۔
 جاہر وار۔ (۱) ایک قسم کی پھولدار چھینٹ۔ (۲) پھول دار شیشے کی چادر۔
 جلسے سے باہر ہو جانا۔ (ہونا)۔ (ا۔ محاورہ) (۱) خوشی یا غصے میں پلے
 سے باہر ہو جانا۔ (۲) بہت اترا نا۔ فخر کرنا۔
 جامے سے نکل پڑنا۔ (ا۔ محاورہ) بہت زیادہ اترا نا۔ جب انسان اپنے
 قابو میں نہ رہے اس وقت بولتے ہیں۔
 جامے سے نکل جانا۔ (ا۔ محاورہ) دیکھیے جامے سے باہر ہو جانا۔
 جامے میں پھولانا سما نا۔ (ا۔ محاورہ) اتنا غش ہونا کہ آپے سے باہر ہو
 جانا۔
 جامے میں رہنا۔ (ا۔ محاورہ) اپنے حواس میں رہنا۔
 جامی۔ (جا۔ می) [ف۔ صفت] (۱) خراسان کے شہر، جام سے منسوب۔
 اس شہر کا باشندہ یا اس سے متعلق کوئی چیز (۲) فارسی کے مشہور شاعر
 مولانا نور الدین عبدالرحمن ابن احمد جامی۔
 جان۔ (ف۔ ا۔ صفت) (۱) روح۔ آتما۔ (۲) زندگی۔ حیات۔ (۳) طاقت۔
 قوت۔ (۴) بہتت۔ جو صلہ۔ تاب و توان۔ (۵) جوہر۔ لبت لباس بجز
 (۶) نہایت عزیز چیز (۷) پیالہ میٹھا۔ (۸) معشوق (۹) خوبی۔ خوبصورتی۔
 (۱۰) زریب و آرائش۔ (۱۱) پیالہ کا کلمہ۔ (۱۲) بچہ۔
 جان آجانا۔ جان آنا۔ (ا۔ محاورہ) (۱) طاقت آنا۔ قوت آنا۔ (۲) پنیپ
 جانا۔ (۳) تازگی پانا۔ (۴) تکبیر یا تسلی پانا (۵) خوشی حاصل ہونا۔
 جان آڑنا۔ (ا۔ محاورہ) [ق] جان کی پروا نہ کرنا۔
 جان آزاری۔ (ف۔ ا۔ صفت) دکھ دینا۔ ستانا۔

جان پر جو کچھ آنا۔ (۱- محاورہ) مصیبت میں چھینٹنا۔
جان پر ضمیر۔ (۱- مقولہ) کسی کو بددعا دینے کے موقع پر کہتے ہیں۔ جبر
کا اثر اس کی جان پر پڑے۔

جان پر کھیلنا۔ کھیل جانا۔ (۱- محاورہ) (۱) ایسا کام کرنا جس میں جان جانے
کا خطرہ ہو۔ (۲) کوئی مقصد حاصل کرنے کے لیے مرنے پر آمادہ ہو
جانا۔

جان پر نوبت آنا۔ (۱- محاورہ) زندگی خطرے میں پڑ جانا۔ جان جانے
کا خطرہ سامنے آ جانا۔ جان لیوا مصیبت کا سامنا ہونا۔

جان پڑنا۔ (۱- محاورہ)۔ (۱) زندگی پیدا ہونا۔ زندگی کے آثار نظر آنا۔

(۲) طاقت آ جانا۔ (۳) کام کی رفتار تیز ہو جانا۔ (۴) اندھے یا بچے میں
روح پڑنا۔ (۵) پہل ہونا۔ (۶) فرحت محسوس ہونا۔ (۷) بیماری سے چھینٹنا۔
(۸) آسودہ حال ہو جانا۔ (۹) رونق آ جانا۔ (۱۰) عرش ہونا۔

جان پڑی ہونا۔ (۱- محاورہ)۔ (۱) کسی شخص، چیز یا معاملے میں (کسی کی)
نکمرگی رہنا۔ (کسی کی طرف) خیال لگا ہونا۔ (کسی کا) ہر وقت دھیان
آنا۔

جان بہ گدزنا۔ (۱- محاورہ) تکلیف یا اذیت میں ہونا۔ جان پر پھنا۔

جان بچھڑکنا۔ (۱- محاورہ) بیٹائی محسوس کرنا۔ گھبرانا۔

جان چھینٹنا۔ (۱- محاورہ) جان چھینٹنا۔ مصیبت میں جان ڈالنا۔ مشکل
میں چھینٹنا۔

جان پیاری ہونا۔ (۱- محاورہ) مرنے کو جی نہ چاہنا۔ زندگی عزیز
ہونا۔

جان تراش۔ (۱- محاورہ) کم زور کرنے والا۔ (۲) (ق)

جان تصدق کرنا۔ (۱- محاورہ) دوسرے کو بچانے کے لیے خود مر
جانا۔ دوسرے پر اپنی جان قربان کرنا۔

جان توڑ کر۔ (۱- محاورہ) نمائندگی محنت سے۔ بہت کوشش سے۔

جان توڑنا۔ جان توڑنا۔ (۱- محاورہ) مزاح کی حالت میں ہونا (۲) محنت
کوشش کرنا۔

جان جاتی رہنا۔ جان جانا۔ (۱- محاورہ) مر جانا۔ وفات پانا۔ گزر جانا۔

جان جاں۔ جان جاناں۔ (۱- محاورہ) بہت عزیز۔ پائزار معشوق۔

جان جاتے پر آں نہ جاتے۔ (مثلاً) عزت میں کسی حالت میں فرق
نہیں آنا چاہیے۔ بہرہ و برکتیت پر قائم رہنی چاہیے۔

جان جاتے کہہ رہے۔ (مثلاً) کتاب ہی نقصان کیوں نہ اٹھانا پڑے کتنی
ہی مصیبت کیوں نہ آئے کسی مقصد یا کام یا نظریہ کو کسی حالت میں نہ

چھوڑنے کا اہل ارادہ۔

جان جھلانا۔ (۱- محاورہ) (۱) سرخ دینا جی جھلانا۔ دلی تکلیف یا اذیت دینا۔

(۲) غصہ دلانا۔ غصہ بھر کر لانا۔ اشتغال دلانا۔

جان جھلنا۔ (۱- محاورہ) (۱) سرخ ہونا۔ (۲) غصہ آنا۔

جان جو کھوں۔ جان جو کھم۔ (۱- محاورہ) (۱) خطرہ (۲) اندیشہ۔ خوف۔

ڈر۔ (۳) مصیبت۔ آفت۔

جان آفرین۔ (۱- محاورہ) جان ڈالنے والا۔ خدا۔

جان آنکھوں میں آنا۔ (۱- محاورہ) (۱) مرنے کے قریب ہونا۔ (۲)
شہر یا انتظام ہونا۔

جان اٹکنا۔ (۱- محاورہ) دم ٹکٹنے نکلنے رک جانا۔ نزع کی حالت۔

جان اڑی ہونا۔ (۱- محاورہ) پریشانی۔ بدحواسی۔ اضطراب۔

جان اٹھنا۔ (۱- محاورہ) مصیبت میں چھینٹ جانا۔ آفت میں پڑ جانا۔

جان باخترہ۔ (۱- محاورہ) جسے جان کا ڈرنہ ہو۔ جان پر کھیلنا ہوا۔

جان باز۔ (۱- محاورہ) (۱) جان پر کھیل جانے والا۔ (۲) غیر معمولی
حوصلے کا انسان۔ (۳) میساج۔ دلیر۔ شجاع۔

جان بازی۔ (۱- محاورہ) (۱) جان پر کھیلنا۔ دلیری۔ شجاعت (۲)
غیر معمولی حوصلہ۔

جان بچا جانا۔ (۱- محاورہ) الگ ہو جانا۔

جان بچی ہلا کھوں پاتے۔ (مثلاً) (۱) زندہ سلامت رہنا ہی بڑی دولت
ہے (۲) مصیبت سے بچنا چھوٹنا۔ مذاب سے نجات ملی۔

جان بخت (تیسلم) ہونا۔ (۱- محاورہ) مر جانا۔ فوت ہو جانا۔

جان بخش۔ (۱- محاورہ) (۱) مرنے والا یا والی۔ جس سے جان
سہی پڑ جائے۔

جان کشی۔ (۱- محاورہ) (۱) مرنے والا یا والی۔ جس سے جان
سہی پڑ جائے۔

جان کشی۔ (۱- محاورہ) (۱) مرنے والا یا والی۔ جس سے جان
سہی پڑ جائے۔

جان کشی۔ (۱- محاورہ) (۱) مرنے والا یا والی۔ جس سے جان
سہی پڑ جائے۔

جان بھر۔ (۱- محاورہ) محفوظ۔ زندہ سلامت۔ صحیح سلامت۔

جان بھر ہونا۔ (۱- محاورہ) (۱) مرنے سے بچ جانا۔ (۲) محفوظ رہنا۔

جان بلب۔ (۱- محاورہ) مرنے کے قریب۔ قریب مرگ۔

جان بلب (برلب) ہونا۔ (۱- محاورہ) مرنے کے قریب ہونا۔ نزع
میں ہونا۔

جان بھاری ہونا۔ (۱- محاورہ) زندگی سے تنگ آنا۔ مصیبتوں سے
گھبر جانا۔

جان بھینچنا۔ (۱- محاورہ) طمع کی وجہ سے وہ کام کرنا جس میں جان جانے
کا خطرہ ہو۔

جان بے گل ہونا۔ (۱- محاورہ) بے چینی یا اضطراب ہونا۔ گھبرائٹ
ہونا۔

جان بھیر۔ (۱- محاورہ) زندگی کا بیمہ۔ (Life Insurance)

جان پانا۔ (۱- محاورہ) تازگی آ جانا۔ نئی زندگی پیدا ہو جانا۔

جان پر آنا۔ (۱- محاورہ) (۱) سخت مصیبت ہونا۔ (۲) اتنی سخت
تکلیف ہونا جس سے مرجانے کا اندیشہ ہو۔

جان پر آسمان (فلک) کوٹنا۔ (۱- محاورہ) بڑی سخت مصیبت
آنا۔ آفت نازل ہونا

جان پر آنا۔ (۱- محاورہ) جان پر پڑنا۔ خطرہ قریب ہونا۔

جان پر کن جانا۔ جان پر بندنا۔ (۱- محاورہ) (۱) جان خطرے میں
ہونا۔ مصیبت میں چھینٹ جانا۔ (۲) سخت تکلیف میں ڈنگا ہو جانا۔

جان جہاں - (ف صفت) محبوب معشوق۔
 جان چھوکتا - (۱) محاورہ) دوسرے کے لیے مرجانا۔ قربان ہو جانا۔
 جان چڑانا - (۱) محاورہ) کام سے بچنا۔ ٹالنا۔ پہنوتسی کرنا۔ محنت سے گریز کرنا۔
 جان چلی جانا - (۱) محاورہ) بے چینی، گھبراہٹ یا اضطراب ہونا۔
 جان چھپانا - (۱) محاورہ) بہانے کرنا۔ جیلے حوالے کرنا۔ ٹال ٹال کرنا چھپتے پھرنا۔
 جان چھڑانا - (۱) محاورہ) بچھیا چھڑانا۔ چھندے یا گرفت سے بچ نکلتا۔ نجات پانا۔
 جان چھڑکنا - (۱) محاورہ) (۱) فریفتہ ہونا۔ عاشق ہونا۔ دل و جان سے پیار کرنا۔ (۲) انتہائی شفقت دکھانا۔
 جان چھوٹنا - (۱) محاورہ) (۱) نجات ہونا۔ (۲) جھگڑے سے چھوٹ جانا۔ (۳) تکلیف وہ پابندی سے آزاد ہونا۔
 جان چھوڑنا - (۱) محاورہ) بچھیا چھوڑنا۔ واسطہ ختم ہونا۔ (۲) ہمت ہارنا۔ (۳) مرجانا۔
 جان حاضر ہونا - (۱) محاورہ) (۱) ہر طرح امداد کے لیے تیار ہونا۔ (۲) بڑی سے بڑی قربانی پر آمادہ ہونا۔
 جان دار - (ف صفت) (۱) ذی روح۔ حیوان۔ جان رکھنے والا۔ (۲) طاقت ور۔ قوی مضبوط۔ (۳) باہمت۔ حوصلے والا۔ (۴) چست۔ چالاک۔ تیز۔ پھرتیلو۔ (۵) دولت مند۔ مال دار۔ صاحبِ ثروت۔
 جان دریغ نہ کرنا - (۱) محاورہ) کسی کے مقابلے میں اپنی جان کو بھی کچھ نہ بچھنا۔
 جان ڈو پھیر ہونا - (۱) محاورہ) زندگی وبال معلوم ہونا۔ زندگی سے بیزار ہونا۔ موت چاہنا۔ زندگی آجین ہونا۔
 جان ڈھکنڈھکی میں اٹھنا - (۱) محاورہ) محنت بے چینی۔ بے قراری یا گھبراہٹ۔
 جان دینا - جان دے دینا - (۱) محاورہ) (۱) مرجانا۔ (۲) خودکشی کرنا۔ (۳) بخوشی کرنا۔ (۴) دوسرے کے لیے مرجانا۔
 جان ڈالنا - (۱) محاورہ) رُوح ڈالنا۔ زندگی دینا۔ (۲) تازہ دم کرنا۔ (۳) ترقی دینا۔
 جان رکھنا - (۱) محاورہ) طاقت ور ہونا۔ قوی ہونا۔
 جان رمتے ہونا - (۱) محاورہ) تھوڑی سی جان باقی ہونا۔
 جان رہنا - (۱) محاورہ) زندگی برقرار رہنا۔
 جان رہے یا نہ رہے - (دیکھیے جان جانے کے رہے۔
 جان سپار - (ف صفت) اپنی جان دوسرے کو سونپنے والا۔ اپنی زندگی یا موت دوسرے کی مرضی پر منحصر کرنے والا۔ عاشق۔
 جان سپر کرنا - (۱) محاورہ) دوسرے کو بچانے کے لیے اپنی جان خطرے میں ڈالنا۔
 جان سٹال - (ف صفت) - جان لینے والا معشوق۔

جان ستانی - (ف صفت) (۱) مرث) جان لوٹنا۔ ہلاک کر دینا۔ ظلم و ستم۔
 جان سن سے ہو جانا - (۱) محاورہ) ڈر جانا۔ سہم جانا۔
 جان سوختے - (ف صفت) (۱) صفت) جان جلا ہوا۔ عاشق۔
 جان سوز - (ف صفت) دل جلانے والا۔ ایذا دینے والا۔ تکلیف دہ۔ دکھنا۔ معشوق۔
 جان سوزی - (ف صفت) (۱) مرث) جان جلانا۔ دل جلانا۔ ایذا یا تکلیف دینا یا اٹھانا۔
 جان سوکھنا - (۱) محاورہ) (۱) خوف معلوم ہونا۔ (۲) ڈر گنا۔ دم نشک ہونا۔ ناگوار گزارنا۔
 جان سولی پر ہونا - (۱) محاورہ) (۱) کسی بات کا اندیشہ ہونا۔ (۲) خطرے میں ہونا۔ (۳) استغراب ہونا۔ (۴) تکلیف، بے چینی یا اضطراب میں ہونا۔
 جان سے بیزار ہونا - (۱) محاورہ) جان سے تنگ آنا یا ہونا (دیکھیے جان ڈو پھیر ہونا۔
 جان سے جانا - (۱) محاورہ) (۱) مزا۔ فوت ہونا۔ (۲) کسی بیماری یا حادثے کی نذر ہونا۔
 جان سے ڈور - (۱) محاورہ) جب کسی مرے ہوئے شخص سے کسی اپنے زندہ عزیز و دل کو نسبت دیتے ہوئے کہتے ہیں۔
 جان سے زیادہ عزیز رکھنا - (۱) محاورہ) بہت پیارا سمجھنا۔
 جان سے گذرنا - جان سے گذر جانا - (۱) محاورہ) مرجانا۔ فنا ہو جانا۔
 جان سے مار ڈالنا - (۱) محاورہ) قتل کرنا۔ ہلاک کرنا۔
 جان سے مایوس ہونا - (۱) محاورہ) بچنے کی امید نہ رہنا۔
 جان سے ہاتھ اٹھانا - جان سے ہاتھ دھو بیٹھنا (دھونا۔ (۱) مٹا دینا۔ (۲) مرنے پر آمادہ ہونا۔ (۳) زندگی سے مایوس ہو جانا۔
 جان شیریں - (ف صفت) (۱) پیاری جان۔ زندگی۔
 جان عالم - (۱) اردو زبان کی مشہور داستان انسانہ عجائب کلامیہ۔ (۲) نقاب والہ علی شاہ بادشاہ اودھ کا لقب۔
 جان عذاب میں آنا - جان عذاب میں پڑنا - (پھنسنا)۔ (۱) محاورہ) سخت مصیبت میں پڑنا۔
 جان عذاب میں ڈالنا - (۱) محاورہ) جان مصیبت میں پھنسانا۔
 جان عیش ہونا - (۱) محاورہ) کسی پر فریفتہ ہونا۔
 جان فرسا - (ف صفت) خون خشک کرنے والا۔ خوفناک۔ ڈراؤنا۔
 جان فزا - (ف صفت) فرحت، انجیز۔ دل خوش کرنے والا۔ مسرت دہیز۔
 جان قشال - (ف صفت) جان چھڑکنے والا۔ دوسرے کے لیے جان دینے والا۔ سرگرم۔ پُرشوق۔
 جان قشانی - (ف صفت) (۱) مرث) (۱) جان دینا۔ (۲) محنت۔ کوشش۔ (۳) سرگرمی۔ شوق۔
 جان کا شرم - جان کا دشمن - جان کا لاگو - جان کا لیوا - (۱) صفت)

(۱) سخت دشمن۔ جانی دشمن۔ ایسا شخص جو جان کے درپے رہے۔
 (۲) مکتل موت۔ (۳) ہتواہ۔ حاسد۔
 جان کا یہ پوند۔ جان کا ٹکڑا۔ (۱ صفت) جو اپنی جان بتنا عزیز ہو۔
 آرام دل۔ معشوق۔ بگر پارہ۔
 جان کا ٹکڑا۔ (۱ صفت) بہت پیارا۔ معشوق۔ فرزند۔
 جان کا جنبال۔ (۱ مذ) ڈوبہڑ نکلیف وہ۔ وبال جان۔ مصیبت۔
 بکھڑا۔
 جان کا خواہاں ہونا۔ (۱ محاورہ) مارنے کے درپے ہونا۔ قتل کی فکر
 میں ہونا۔
 جان کا دشمن۔ (۱ صفت) سخت دشمن۔
 جان کا روگ۔ جان کا عذاب۔ (۱ مذ)۔ (۱) ایسا مرض جس میں
 ہلاکت کا خطرہ ہو۔ وہ آزار یا بیماری جس نے جینا ویاں کر دیا ہو۔
 جان کا صدقہ مال۔ (مثل) جان بچانے کے لیے مال قربان کر دینا
 چاہیے۔
 جان کا ٹھنکا۔ (۱ مذ) ہلاکت یا قتل کا اندیشہ۔
 جان کا کیا بھر وسا۔ (۱ مذ) زندگی کا کیا بھر وسا۔
 جان کا منہ نہیں گرتے، روئے کا منہ کرتے ہیں۔ (مثل) کہ جو آدمی
 رو بہ بچانے کے لیے اپنی جان کو بھی خطرے میں ڈال لیتے ہیں۔
 جان کا آنا۔ (۱ محاورہ) کسی کی خدمت میں مرجانا۔
 جان کا ہا۔ (۱ صفت)۔ (۱) محنت طلب (۲) جس سے جان گھل جائے
 (۳) عجز بچو۔
 جان کا ہنسی۔ (فت۔ ۱۔ مٹھ)۔ محنت۔ مشقت (۲) کوئی چیز جو زندگی
 کو کر دے۔
 جان کا آگو۔ (۱ مقولہ) جان کا دشمن۔ جانی دشمن۔
 جان کنڈنی۔ جان کنڈی۔ (۱) نزاع کی حالت۔ دم توڑنا۔ موت کے لڑتے
 میں سانس اکھڑنا۔ (۲) عذاب۔ اذیت۔
 جان کو آجانا۔ جان کو آنا۔ (۱ صفت) سخت غصے ہونا۔ بہت
 ناراض ہونا۔
 جان کو جان نہ سمجھنا۔ (۱ محاورہ) حد سے زیادہ محنت کرنا۔ اپنی
 صحت کی طرف سے بے پروا ہو کر مشقت کرنا۔
 جان کو روزنا۔ جان کو کپٹنا۔ (۱ محاورہ) صبر کر لینا۔ جس سے تکلیف
 پہنچی ہے اسے کوسنا۔
 جان کھا جانا۔ جان کھانا۔ (۱ محاورہ)۔ (۱) ستانا۔ تنگ کرنا۔ (۲)
 ٹھکانا۔ تباہ کرنا۔ (۳) ناک میں دم کرنا۔ (۴) بہت ستانا۔
 جان کھا لینا۔ (۱) ناک میں دم کر دینا۔ (۲) تنگ کرنا۔ ستانا۔
 جان کھینا۔ (۱ محاورہ) بہت زیادہ محنت کرنا۔ فکر کرنا۔ تروویں بہنا۔
 جان کھینٹنا۔ (۱ محاورہ) جان نکلتا۔ دم نکلتا۔
 جان کھوٹنا۔ (۱ محاورہ)۔ (۱) رچ کرنا۔ غم کرنا (۲) مرجانا (۳) کسی خاص
 مقصد کے لیے جان سے دینا۔

جان کی اماں۔ (۱) (۱) مست۔ (۲) جان بخشی۔ بمعانی (۳) رہائی۔ (۴) نجات۔
 جان کی بڑی ہونا۔ (۱ محاورہ)۔ (۱) زندگی کی نگر ہونا۔ جان بچانے
 کی فکر ہونا۔
 جان کی جان گئی ایمان کا ایمان گیا۔ (مثل) دین کے رہنے نہ دینا کے
 دونوں طرف سے نقصان ہوا۔
 جان کی خیر۔ جان کی سلامتی۔ (۱ صفت) جان بچی رہنے کی حالت۔
 جان کی خیرات مال۔ (مثل) دیکھیے جان کا صدقہ مال۔
 جان کی طرح رکھنا۔ (۱ محاورہ)۔ (۱) بہت عزیز رکھنا۔ بہت اُنس
 رکھنا۔
 جان کے برابر رکھنا۔ (۱ محاورہ)۔ (۱) بہت زیادہ عزیز رکھنا۔ بہت
 زیادہ قدر کرنا۔ (۲) اپنے سے بڑا نہ کرنا۔
 جان کے پیچھے پڑنا۔ (۱ محاورہ) جان کے درپے ہونا۔ قتل کرنے کے
 لیے پیچھے پڑنا۔
 جان کے پیچھے عذاب لگانا۔ (۱ محاورہ) کوئی کچھ یا مصیبت اپنے
 سر لے لینا۔
 جان کے ساتھ چہوڑنا۔ وہ مصیبت جو عمر بھر ساتھ رہے (چہوڑنا موٹی
 رہی کہتے ہیں)۔ یہ کمادت بڑی بیوی یا بڑے خاندان کے حق میں کہی
 جاتی ہے۔
 جان کے لالے پڑنا۔ (۱ محاورہ) جینے کی اُمید نہ رہنا۔
 جان گداز۔ (فت صفت) جان کو گھلانے والا۔ دل پر اثر کرنے والا۔
 جان گداز۔ (فت۔ ۱۔ مٹھ)۔ جان گھلنا۔
 جان گڑا۔ (فت صفت) جان کو گھلانے والا۔ جان کو اذیت یا تکلیف
 دینے والا۔
 جان گھل۔ (فت صفت) دیکھیے جان گڑا۔ جان کو گھلانے والا۔
 جان گھلانا۔ (۱ محاورہ) فکر یا غم سے بے حال ہونا۔ بہت تروڑ کرنا۔
 جان گھل جانا۔ (۱ محاورہ) جان گھلنا۔ کم زور ہو جانا۔ صحت تباہ ہو
 جانا۔
 جان گنوا۔ (۱ محاورہ)۔ (۱) بے فائدہ جان دے دینا۔ (۲) مرنا۔
 جان لیوں پھوٹا۔ (۱ محاورہ) مرنے کے قریب ہونا۔ علم نزع
 میں ہونا۔
 جان لڑا دینا۔ جان لڑانا۔ (۱ محاورہ)۔ (۱) مرنے کو تیار ہو جانا۔ (۲)
 دل سے کوشش کرنا۔ بے حد کوشش کرنا۔
 جان لہنا۔ (۱ محاورہ) مائل ہونا۔ عاشق ہونا۔ فریفتہ ہونا۔
 جان لینا۔ (۱ محاورہ)۔ (۱) مار ڈالنا۔ ہلاک کرنا۔ قتل کر ڈالنا۔ (۲) تنگ
 کرنا۔ (۳) سمجھ لینا۔
 جان لیوا۔ (فت۔ ۱۔ مذ)۔ (۱) جو جان لے لے۔ (۲) جانی دشمن۔
 جان مار کر کام کرنا۔ (۱ محاورہ) بہت محنت اور کوشش سے کام کرنا۔
 جان مارنا۔ (۱ محاورہ)۔ (۱) بہت محنت سے کام کرنا۔ (۲) تکلیف
 پہنچانا۔ (۳) تنگ کرنا۔

جان مارے بقیا پہچان مارے چور۔ (۱- مثل) بنیا دوستوں سے مار کھاتا ہے اور چور جانے والوں سے۔
 جان مارے سے ٹھکانا پیدا ہوتا ہے۔ (۱- مثل) محنت اور لگن سے کام کیا جائے تو درپہر حاصل ہوتا ہے۔
 جان لگن۔ (دفعہ صفت)۔ (۱) میری جان۔ (۲) کسی عزیز یا محبوب شخص کو خطاب کرنا ہو تو یہ ترکیب استعمال کرتے ہیں۔
 جان میں جان آنا۔ جان میں جان پڑنا۔ (۱- محاورہ) (۱) اطمینان ہونا۔ نسلی ہونا۔ (۲) حوصلہ ہونا۔ (۳) خوشی حاصل ہونا۔
 جان میں جان نہ ہونا۔ (۱- محاورہ) بہت کمزور ہونا۔
 جان نثار۔ (دفعہ صفت)۔ (۱) جان قربان کرنے والا۔ (۲) وفادار۔
 جان نثار کرنا۔ (۱- محاورہ) کسی کو بچانے کے لیے اپنی جان قربان کر دینا۔
 جان نثاری۔ (دفعہ صفت)۔ (۱) جان نثار کرنا۔ (۲) جان نثاری۔ (۳) جفاکشی۔
 جان نکلنا۔ (۱) دم نکلنا۔ مرنا۔ (۲) گھبرانا۔ (۳) بزدلی دکھانا۔ (۴) بے گل ہونا۔
 جان نواز۔ (دفعہ صفت)۔ (۱) جان پر مہربانی کرنے والا۔ (۲) کنایتاً مہشوق۔
 جان نوازی۔ (دفعہ صفت)۔ (۱) جان پروری۔ (۲) جان پر مہربانی کرنا۔
 جان نہ بچنا۔ (۱- محاورہ) موت سے نہ بچ سکتا۔ (۲) چھٹکارا نہ ہونا۔
 جان نہ چھوڑنا۔ (۱- محاورہ) مار ڈالنا۔ (۲) بچھڑانا۔
 جان نہ ہونا۔ (۱- محاورہ) کمزور ہونا۔ طاقت نہ ہونا۔ بکثت نہ ہونا۔
 جان وارنا۔ (۱- محاورہ) جان قربان کرنا۔ جان نثار ہونا۔
 جان و دل سے۔ نہایت خوشی سے۔ بہنوشی (پورے تعاون کا وعدہ)
 جان و مال کو ہونا۔ (۱- محاورہ) کسی کی جان اور مال کے نقصان کا رنج و طمان کرنا۔
 جان ہار۔ (دفعہ صفت)۔ (۱) جان پر کھیلنے والا۔ (۲) جان دینے والا۔ (۳) مرنے والا۔
 جان ہلاک کرنا۔ (۱- محاورہ) (۱) بہت زیادہ فکر ہونا (۲) حد سے زیادہ محنت و مشقت کرنا۔
 جان ہلان کرنا۔ (۱- محاورہ) (۱) تھکا مارنا۔ بہت زیادہ کام لینا (۲) تکلیف دینا۔ تنگ کرنا۔ (۳) مصیبت چھیننا۔
 جان ہوا ہونا۔ (۱- محاورہ) (۱) جان نکلنا۔ (۲) بہت زیادہ ڈرنا۔
 جان ہونا۔ (۱- محاورہ)۔ (۱) طاقت۔ (۲) زور یا قوت ہونا۔ (۳) زندگی پائی جانا۔ (۳) بہت عزیز ہونا۔
 جان ہونٹوں پر آنا۔ دیکھتے جان بولوں پر آنا۔
 جان ہے تو جمان ہے۔ جان ہے تو سب کچھ ہے۔ (۱- مثل)

دنیا کے سارے مرنے جیتے ہی کے ہیں۔
 جان۔ (۱- مرث)۔ (۱) واقفیت۔ پہچان۔ آنکھی۔
 جان بوجھ کر۔ (۱- محاورہ) عمداً۔ قصداً۔ دیدہ دانستہ۔ ارادتا۔
 جان بوجھ کر کشوں میں گزنا۔ (۱- محاورہ)۔ (۱) واقف ہونے ہوئے نقصان اٹھانا۔ (۲) باخبر ہونے کے باوجود خطرے میں پڑنا۔
 جان پڑنا۔ (۱- محاورہ) معلوم ہونا۔ دھیان میں آنا۔ ظاہر ہونا۔ نظر آنا۔ محسوس ہونا۔
 جان پہچان۔ (۱- مرث)۔ (۱) واقفیت۔ آشنائی۔ جاننا۔ شناسائی۔ صاحب سلامت۔ [۱- مذکر] (۲) واقف۔ دوست آشنا۔
 جان جاننا۔ (۱- محاورہ)۔ (۱) واقف ہونا۔ (۲) پہچان کر لینا۔ پہچان جانا۔
 جان رکھنا۔ (۱- محاورہ) یاد رکھنا۔ اچھی طرح سمجھ لینا۔ دل میں بٹھالینا۔
 جان کار۔ (۱- صفت)۔ (۱) واقفیت رکھنے والا۔ ماہر (۲) شناسا۔ جان پہچان۔
 جان کاری۔ (۱- مرث)۔ (۱) واقفیت۔ مہارت۔ (۲) شناسائی۔
 جان کر۔ جان کے۔ دانستہ۔ عمداً۔ قصداً۔ جانتے تو جھتے۔
 جان کراہان ہونا۔ (۱- محاورہ) واقف ہونے کے باوجود لامتی ظاہر کرنا۔
 جان واقف ہونا۔ دیدہ دانستہ انکار کرنا۔ تجاہل عارفانہ۔
 جان کرو دیکھ نہیں اس سے اندھا کون۔ (۱- مثل) دیدہ دانستہ غلطی کرنے والے سے بڑا حق کون ہوتا ہے۔
 جان کے۔ (۱- منقول) ارادتا۔ عمداً۔
 جان لینا۔ (۱) معلوم کر لینا۔ واقف ہو جانا۔ (۲) پہچان لینا۔ (۳) تسلیم کر لینا۔ (۴) قائل ہونا۔ (۵) خیال کرنا۔ (۶) نا ڈر لینا۔
 جان نہ پہچان بڑی خالہ سلام۔ (۱) کوئی شخص جان پہچان کے بغیر ہی واقفیت بنانے کے قواس سواتے پر یہ مثل کہی جاتی ہے۔ ناحق کا تپناک اور گرم جوشتی۔ خواہ مخواہ دوستی جتانہ۔
 جان نہ ہونا۔ (۱- محاورہ) بہت کمزور ہونا۔
 جان۔ (۱- مرث)۔ (۱) جن (۲) جنوں اور پریوں کا جادو علی۔
 جاننا۔ (۱) مص [روانہ ہونا۔ رخصت ہونا۔ چلنا۔ سدھا زنا۔ نکلنا۔ ملنا۔
 جاننا اپنے بس۔ آنا پر اسے بس۔ (۱- مثل) اپنی خوشی سے جانا۔ دوسرے کی مرضی سے واپس آنا۔
 جاننا ہے رہنا نہیں۔ (مثل) مستقل قیام نہیں کرنا ہے۔
 جاننا بوجھا۔ (جا۔ نا۔ بوجھا)۔ (۱- صفت) جس سے اچھی طرح واقفیت ہو۔ دیکھا بھالا جس کو اچھی طرح جانتے ہوں۔
 جانناں۔ (جا۔ ناں)۔ (جا۔ نا۔ ناں)۔ (دفعہ صفت)۔ (۱) محبوب۔ محبوبہ۔ جانی۔ پیارا۔ (۲) بعض صوفی شعرا نے خدا کے لیے بھی استعمال کیا ہے۔
 جانب۔ (جا۔ نب)۔ (ع۔ ا۔ یث)۔ (۱) طرف۔ (۲) سمت۔ (۳) پہلو۔ (۴) ایک طرف یا باہر کا حصہ (۵) فرق۔ (۶) دھڑا (۷) حصہ۔
 جانب دار۔ (دفعہ صفت)۔ (۱) طرف دار۔ حمایتی۔ مددگار۔ بچ کرنے والا۔
 جانب دارانہ۔ (دفعہ صفت)۔ (۱) وہ رویہ جس میں ایک فریق کی حمایت کی جائے۔
 جانب داری۔ (۱) طرفداری۔ حمایت۔ (۲) ایک فریق کی پاسداری۔

جانے میری ملا۔ (جوتنی) مجھے کیا خبر (نگوارہات یا ناپسندیدہ اُفتے کے بارے میں پوچھ جانے پر جھنجھلاہٹ کا اظہار)۔
جانے۔ [ہ] جانگی بدلی ہوئی شکل۔ آنے کی ضد۔
جانے دو۔ (۱) محاورہ۔ (۲) درگزر کرو۔ (۳) غصہ نہ کر دو۔ (۴) روکو نہیں۔

جانے دینا۔ (۱) محاورہ۔ (۲) جانے سے نہ روکنا۔ (۳) درگزر کرنا۔ (۴) چھوڑ دینا۔
جانے کے بچسن۔ (۱) مذ۔ بگڑنے کے آثار۔ تباہی کی علامتیں۔

جانے میری جوتنی۔ (۱) (مقولہ) مجھے کیا پتہ نہیں۔
جانے والے کے ہزار رستے ڈھونڈنے والے کا ایک۔ (۲) (مثیل) کسی شخص کے چلے جانے کے بعد لے ڈھونڈنا بہت دشوار ہوتا ہے۔
جانے والے کے سانسے ان گنت راستے کھلے ہوتے ہیں جہاں چاہے جلا جائے۔ ڈھونڈنے والا ایک وقت میں ایک ہی راستے جا سکتا ہے۔

جاؤ ترمی۔ (جا۔ وٹ۔ ت۔ ری) [س]۔ ۱۔ مٹ [جا مٹل کا پوست۔ جا ووال۔ (جا۔ و۔ وال) [ت۔ صفت] [ہمیشہ۔ دائم۔ ملام۔ سدا۔ جا ووانی۔ (جا۔ و۔ وانی) [ت۔ صفت] [دوامی۔ سرمدی۔ ہمیشہ کے لیے۔ الٹی۔

جا وید۔ (جا۔ وید) [ت۔ صفت] [والمی۔ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ جاہ۔ ۱۔ مٹ] [۱] مرتبہ۔ درجہ (۲) منصب۔ عرت۔ قدر و منزلت (۳) بزرگی۔ عظمت۔ شان۔

جاہ و جلال۔ (ت۔ ۱۔ مذ) [ت۔ صفت] [دب۔ دب۔ شان و شوکت و عظمت۔ جاہ و چشم۔ (ت۔ ۱۔ مذ) [۱] شان و شوکت۔ شامٹ باٹ۔ کروفر (۲) لاؤ ٹھکر۔

جاہ و منزلت۔ جاہ و منصب۔ (ت۔ ع۔ ۱۔ مٹ) بزرگی شان۔ عظمت۔ وقار۔ رتبہ۔

جاہل۔ (جا۔ ہل) [ع۔ صفت] [۱] ان پڑھ۔ ناخواندہ (۲) وحشی۔ اُجڑ۔ بد اخلاق۔ بے ادب۔ گستاخ۔ نادان۔ انارٹی۔ (۳) نادانیت۔

بے خبر۔ انجان۔
جاہل فقیر شیطان کا ٹھکانہ۔ (۱) (مثیل) بے علم فقیر شیطان کا آلہ کار ہوتا ہے۔

جاہلیت۔ (جا۔ ہ۔ لی۔ بیٹ) [ع۔ ۱۔ مٹ] [۱] جمالت (۲) زمانہ قبل از اسلام جب لوگ بت پرستی کرتے تھے۔

جاہلی جوہی۔ (جا۔ ہی۔ جو۔ ہی) [۱۔ ۱۔ مٹ] [۱] ایک قسم کی چنبیلی (۲) ایک قسم کی آتشبازی۔

جاہلیچل۔ (جا۔ ی۔ چل) [۱۔ ۱۔ مذ] [۱] جاہل۔ جوہ۔ ایک مشہور پھل۔ جاہلکار۔ (جا۔ و۔ وار) [ت۔ ۱۔ مٹ] [۱] مکان۔ زمین۔ اراضی (۲) مال۔ اسباب۔ زیور۔ (۳) کھڑی فصل۔ (۴) پونجی۔ آتش۔ چیز بست جو کسی کی ملکیت میں ہو۔

جانب سے۔ طرف سے۔ بجائے۔ بطور وکیل یا ترجمان۔
جانٹ۔ (جا۔ ٹ) [ت۔ ۱۔ مذ] [۱] جان پھان۔ (۲) رشتہ دار۔ (۳) وہ چیزیں یا لوگ جنہیں کوئی جانتا ہو۔
جانب کار۔ (۱) صفت [واقف کار۔ جان پھان کا آدمی۔
جان بل۔ (Jonn Bull) جان۔ (بل) [انگ۔ ۱۔ مذ] [۱] انگریز قوم۔ انگریز۔

جان بٹین۔ (جان۔ بٹین) [ع۔ ۱۔ مذ] [۱] فریقین۔ دونوں طرف کے آدمی۔ جان بٹین سے۔ دونوں جانب سے۔ دونوں طرف سے۔ ہر دو جانب سے۔

جانستا۔ (جان۔ تا) [ہ۔ ۱۔ مٹ] [۱] آل اولاد۔ (۲) ایک قسم کی بچی۔
جاننا چور گاڈل اُجاڑے۔ (مثیل) واقفیت رکھنے والا چور بہت لیاہور نقصان کرتا ہے۔
جانچ۔ (ہ۔ ۱۔ مٹ] [۱] پرکھ۔ پڑتال۔ اندازہ۔ تخمینہ۔ شناخت۔ جانچنا۔

جانچ پرکھ کرنا۔ (۱) محاورہ۔ آزمانا۔ آجینا۔
جانچ پڑتال کرنا۔ (۱) محاورہ۔ اندازہ کرنا۔ گنتی کرنا۔
جانچ لینا۔ (مسن۔ کرب) تخمینہ کر لینا۔ سنا لینا۔

جانچینا۔ (جانچ۔ نا) [ہ۔ مس] [تخمینہ کرنا۔ (۲) آزمانا۔ پرکھنا۔ (۳) سنا لینا۔ معلوم کرنا۔ سمجھنا۔ (۴) حساب کی پڑتال کرنا۔ (۵) ٹوننا۔

جانکنا۔ (جان۔ ن۔ کل۔ نا) [ہ۔ مس] [اتفاقا جانچینا۔ اچانک سے پہنچ جانا۔ جانک۔ جانکھ۔ (۱۔ ۱۔ مذ] [۱] لان۔ زانو۔

جانگل۔ (جان۔ گل) [ہ۔ ۱۔ مذ] [۱] تینتر (۲) ایک مچھلی پکڑنے والا پٹہ۔ جانگلو۔ (جانگ۔ لو) [ہ۔ صفت] [۱] وحشی۔ غیر منڈب۔ اُجڑ۔ احمق۔ جانگلی۔ (جانگ۔ لی) [ہ۔ ۱۔ مذ] [۱] جنگلی۔ وحشی۔ (۲) دیہاتی۔ گنوار (۳) ایک بزرگ۔ ایک درخت کا نام۔

جانگھیا۔ جانگھیا۔ (جانگھ۔ یا)۔ (جانگھ۔ یا) [ہ۔ ۱۔ مذ] کھینچا۔ لنگوٹ۔ جانغا۔ (جان۔ نا) [ہ۔ مس]۔ واقف ہونا۔ پہچاننا۔ آگاہ ہونا۔ آشنا ہونا۔ معلوم کرنا۔ تیز کرنا۔ سمجھنا۔

جاننا بوجھنا۔ (۱) محاورہ۔ واقف ہونا۔ پوری معلومات رکھنا۔ جاننا۔ (جان۔ نا) [ت۔ ۱۔ مذ] [۱] جینو۔ گنوار۔

جاننور۔ (جان۔ نور) [ت۔ ۱۔ مذ] [۱] جاندار۔ حیوان۔ [صفت] [بے ذوق و احمق۔

جاننی۔ [ت۔ صفت] [۱] پیار کے قابل۔ (۲) معشوق۔ (۳) ماں یا جیسے الفاظ کے ساتھ بولا جانے والا محبت کا لفظ۔

جاننی دشمن۔ (ت۔ صفت) ایسا دشمن جو جان کے ورپے ہو۔

جاننی دوست۔ (ت۔ صفت) وہی دوست۔ مخلص دوست۔

جاننے۔ [ہ۔ ۱] گویا فرض کرو۔ یوں سمجھو (۲) خیال نہیں۔ پتہ نہیں۔ جاننے کرم کی چھینٹ کس وقت آئے۔ (۱) (مثیل) کوئی شخصیں ہانٹا کر قسمت کب جاگ آئے۔

جانی جوئی - (جا۔ ای۔ جو۔ ای) [ہ-۱-مٹ] ایک قسم کا کھوپڑا اور آہستہ آہستہ۔

جائیداد - (جا۔ بی۔ یا) [ہ-۱-مٹ] (۱) جائیداد (۲) شریک۔ (۳) اعتبار۔ چالاک۔ (۴) جو اپنی روشنی طبع کے باعث زیادہ دن جینا نظر نہ کئے۔

جائے - (ج۔ ۱-مٹ) [ہ-۱-مٹ] (۱) گنجائش۔ (۲) موقع۔ (۳) موقع۔ (۴) جاتے استاد و خالی است [مٹ] [مٹ] استاد پھر بھی اسناد ہے۔ استاد کی ہر وقت ضرورت نہتی ہے۔

جائے اعتراض - نقص نکالنے یا عیب نکالنے کی گنجائش۔

جائے اندیشہ - (۱) نظر کے مقام (۲) اندیشے یا خوف کی وجہ۔

جائے کیاہ - (ج۔ ۱-مٹ)۔ امن کی جگہ۔
جائے نکل اُرت و مردمان بسیار [مٹ] [مٹ] جگہ یا گنجائش کم۔ آدمی یا حاضرین زیادہ۔

جائے دم زدن ہمیرت۔ (ج۔ محاورہ) شکایت زبان پر لانے کا موقع نہیں۔ اُٹ کر نے کی گنجائش نہیں۔

جائے سے۔ جائے گھر۔ (۱-صفت) (۱) مناسب موقع پر (۲) صحیح مقام پر۔ بجا۔ ٹھیک۔ درست۔ مناسب۔ واجب۔ ناقابل اعتراض۔ جائے ضرور۔ دیکھیے حاضرؤ

جائے عامہ - (Public Place) وہ جگہ جو عوام کی تفریبات اور ان کے اجتماعات وغیرہ کے لیے مخصوص ہو

جائے تکرر - (ج۔ ۱-مٹ) ہما نہ کرنے یا ماننے کی گنجائش۔
جائے گل گل بائیں و جائے خار، خار۔ [مٹ] [مٹ] نری کے موٹے پر نری اور سختی کے موٹے پر سختی سے کام لینا چاہیے۔

جائے باجرا۔ (ج۔ ۱-مٹ) جس جگہ جرم ہوا ہو۔

جائے نکافات۔ (ج۔ ۱-مٹ) [ہ-۱-مٹ] بدلے کی جگہ (۲) بدلے کا موقع۔

جائے جان۔ رہنے ایمان۔ ایمان کی حفاظت کے لیے جان بھی جانی رہے تو پرواہ نہیں کرنی چاہئے۔

جائے لاکھ۔ رہنے سائے [مٹ] [مٹ] کتنا ہی نقصان ہو مگر آبرو نہیں ہے۔

جایا۔ [ہ-۱-مٹ] [ہ-۱-مٹ] بیٹا۔ فرزند۔ پسر۔ لڑکا۔ ولد۔ پوت۔ خلف۔ ابن۔

جایا۔ (جانانا مصدر کا املاوی فعل) جیسے جایا کرو۔ جایا چاہتا ہے۔

جایا چاہنا۔ جانے کے لیے تیار ہونا۔

جایا کرنا۔ عموماً جانانا، عادتاً جانانا۔

ج - ب

جبب - (۱) حرف شرط جس وقت جس صورت میں جوں ہی در حالے کہ۔ ہر گاہ۔

جبب آٹھ بند کر لی پیچھے کھڑی ہو۔ (۱) [مٹ] [مٹ] مرجانے کے بعد

جائیداد آسانی۔ (ج۔ ۱-مٹ) باپ دادا

جائیداد راضی۔ (ج۔ ۱-مٹ) زمین یا مکانات جو قبضے میں ہوں۔

جائیداد استغاری۔ (ج۔ ۱-مٹ) جائیداد جو دائمی ہو۔

جائیداد سختی۔ (ج۔ ۱-مٹ) رہنے کی جائیداد۔ مکانات۔

جائیداد غیر منقولہ۔ (ج۔ ۱-مٹ) وہ جائیداد جو ایک جگہ سے دوسری جگہ ہٹائی نہ جاسکے جیسے مکان۔ زمین وغیرہ۔

جائیداد متعلقہ خاندان۔ (ج۔ ۱-مٹ) وہ جائیداد جو سارے خاندان کی ملکیت ہو۔ ہندی جائیداد۔

جائیداد مستغرفہ۔ (ج۔ ۱-مٹ) وہ جائیداد جو زمین وغیرہ میں ڈوب جائے۔

جائیداد مشغوعہ۔ (ج۔ ۱-مٹ) وہ جائیداد جس پر حق شفعہ کا عمل کیا جائے۔

جائیداد مکتوبہ۔ (ج۔ ۱-مٹ) وہ جائیداد جو مالک نے اپنی کمائی سے بنائی ہو۔

جائیداد محفوظہ۔ (ج۔ ۱-مٹ) ایسی جائیداد جو زمین یا گروی ہو۔

جائیداد منقولہ۔ (ج۔ ۱-مٹ) وہ جائیداد جو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاسکیں جیسے سامان روپیہ وغیرہ۔

جائزہ۔ (جا۔ از) [ع۔ صفت] (۱) صحیح۔ درست۔ بجا۔ برحق۔ روا۔ (۲) مطابقت شرع۔ قانون کے حدود میں مباح۔ حسب ضابطہ (۳) (اولاد) سگائی۔ (۴) مستند۔ مقبول۔ (۵) قابل قبول۔

جائزہ رکھنا۔ (۱) محاورہ۔ (۲) ماننا صحیح قرار دینا۔ (۳) حلال جاننا۔ (۴) سببنا۔

جائزہ قرار دینا۔ (۱) محاورہ) قانوناً جائز ہونے کا فیصلہ دینا۔

جائزہ ولی۔ (ج۔ ۱-مٹ) جو شرعیاً قانوناً سرپرست تسلیم کیا گیا ہو۔

جائزہ۔ (جا۔ از) [ع۔ صفت] (۱) صدق۔ انعام۔ (۲) بڑا مال۔ مقابلہ۔ (۳) حاضر کی بکنتی۔ (۴) وہ نشانات جو رقومات پر پڑتال کے وقت لگایا جائے۔ درستگی کا نشان۔ پڑتال کی علامت۔

جائزہ دینا۔ (۱) محاورہ) حساب کتاب کی جانچ پڑتال کروانا۔

جائزہ گیری (Resuming Charges) دوبارہ از سر نو کام شروع کرنا۔

جائزہ لینا۔ (۱) محاورہ۔ (۲) پڑتال کرنا۔ جانچنا۔ (۳) زمین میں تولنا۔

(۳) حساب کتاب چیک کرنا (۴) موجودہ سامان یا اقسام وغیرہ کا شمار کرنا۔

جاوہ۔ (بھی) ذل نہ دو۔ رہنے دو۔ اپنا کام کر دو۔ جاؤ جسکے کھاؤ۔ [مٹ] [مٹ] تم اس چیز کے اہل نہیں ہو۔ تم کو یہ چیز نہیں ملے گی۔

جاوہ و توہنا (پوت) دکھن۔ وہی کرم کے لچپن۔ [مٹ] [مٹ] مقام یا جگہ

ہمنے سے تقدیر نہیں بدلتی۔

جائی۔ [ہ-۱-مٹ] [ہ-۱-مٹ] بیوی۔ لڑکی۔ دختر۔

جب تک ہمتیہ لڑھکے لڑھکے جاوے۔ (ایشل) جب تک کام چلتا رہے چلائے جاوے۔ جب تک مطلب نکلے نکالے جاوے۔ جب تک جینا تب تک جینا۔ (ایشل) عسیر بھر محنت شفقت کرنا ہے۔

جب تک دم ہے تب تک علم ہے۔ (ایشل) رنج و غم انسان کو زندگی بھر رہتا ہے۔

جب تک رکابی ہیں بھات تیرا میرا ساتھ۔ (ایشل) جب دودھ پوئیں مطلب کی دوستی جو اس موقع پر پیش کئے ہیں۔

جب تک سانس، تب تک آس۔ (ایشل) مرے دم تک زندگی کی امید لگی رہتی ہے۔

جب تو۔ (ایشل) اس لیے۔ اس وقت تو۔ تب۔

جب جب۔ ہر گاہ۔ جس وقت۔

جب چنے تھے تب دانٹ نہ تھے جب دانٹ ہوئے تب چنے نہیں۔ (ایشل) ایسے موقع پر کسی جانی ہے جب انسان کو یہ طلال ہو کہ چیز موجود تھی تو اس سے خاکہ اٹھانے کے ذرائع پاس نہ تھے

جب ذرائع میرے آئے تو چیز نہیں چڑتی۔

جب خدا دیتا ہے تو چھپر بھانڈ کر دیتا ہے۔ (ایشل) جب خدا دینے پر آتا ہے تو بے وسیلے اور بے ذبیعے دیتا ہے۔ ایسی جگہ سے کتاب ہے

جہاں سے کوئی آمد نہیں ہوتی۔

جب دانٹ نہ تھے تب دودھ دبو، اب دانٹ بھنے گا ان نہ دینے (دیوسے)۔ (ایشل) خدا انسان کو ہر حالت میں رزق دیتا ہے۔

جب سے۔ جس وقت سے۔

جب سے آگے بال، تب سے یہی حال۔ (ایشل) بچپن سے یہی کرتوت ہیں۔

جب کا۔ (ایشل) اس وقت کا۔ (۲) گد شنتہ (۳) آخر کار۔

جب کرمی آس، تب آئے تیرے پاس۔ (ایشل) آدمی ضرورت پڑنے پر اسی کے پاس جاتا ہے جس سے کام لینے کی توقع ہوتی ہے۔

جب کرمی زور ہوتا ہے تب مار صاحب بھی بیٹھا دیتے ہیں۔

(ایشل) پیروں فقیروں کی دعا کا اثر بھی اسی حالت میں ہوتا ہے جب خود بھی کو شمش کی جالتے۔

جب کہ۔ (ایشل) جس وقت۔ جب

جب کہیں جا کے۔ (ایشل) بڑی مشکل سے۔ سخت۔ دشواری سے

جب لگ بھگ۔ (ایشل) لگ بھگ اس کے پار۔

جب لگ بھگ۔ (ایشل) لگ بھگ اس کے پار۔

جب دوست بنے رہتے ہیں۔ دنیا میں سب مطلب سے ملتے

ہیں۔ جب ناپچنے نکلی تو گھوٹ گٹ کیا۔ (ایشل) جب ایک دفعہ غلط کام

جب آنکھیں چار ہوتی ہیں محبت آہی جاتی ہے۔ (ایشل) آہنے سنے ہونے سے محبت کا خیال آجاتا ہے۔

جب آنکھیں ہر میں چار تو دل میں آیا پار۔ جب آنکھیں ہوں اور دل میں ہوں گھوٹ۔ (ایشل) اسے محبت کا اظہار اور غیر حاضری میں پرواہ نہ کرنا بلکہ برائی سوچنا۔

جب آئے برس کا چاؤ تو پچھو گئے نہ پر دا بھاؤ۔ (ایشل) جب خدا مہربانی کرتا ہے تو موقع بے موقع نہیں دیکھتا۔

جب اپنی آمار لی تو دوسرے کی آمار نے کیا دیر لگتی ہے (ایشل) جو خود ذلیل ہے وہ دوسروں کو ذلیل کرنے سے کیوں بچھپاتے گا۔

جب اوڑھ لی لوٹی تو کیا کرے گا کوئی۔ (ایشل) جب بے جیانی اختیار کر لی تو پھر کسی کی کیا پرواہ۔

جب باڑھ ہی کھیت کو کھائے تو رکھوالی کون کسے۔ (ایشل) جہاں ستانے والے اپنے ہی ہوں وہاں یہ ضرب النثل کہی جاتی ہے۔

جب جاو امیں گے تب پہل نہیں گے۔ (ایشل) کسی کام کو کسی ایسے دوسرے کا پرہیز رکھنا جس کے عمل میں آنے کا ہر دست کوئی امکان نہ ہو۔

جب بھانگن کو ہوئے لگائی، توڑے کوٹ اور بھاندے کھائی۔ (ایشل) عورت بھانگنے یا فرار ہونے کی عثمان لے تو اُسے کوئی بڑی سے بڑی رکاوٹ بھی نہیں روک سکتی۔

جب پار اترے تو جوں مار دی۔ (ایشل) اگر مراد پوری ہو جائے تو اس کی نیت بدل جائے اور مانی ہوئی چیز کے بدلے کوئی معمولی سی چیز خیرات کر کے وبال ٹالے گویا اپنے دل کو تفتی دے لے کہ

مست پوری ہو گئی۔

جب پر جا نہیں نوراجہ کہاں۔ (ایشل) حاکم کو ظلم نہیں کرنا چاہیے رعایا نہ ہوگی تو وہ خود کہاں رہے گا۔

جب پھینکا تب پاسچے لین۔ (ایشل) سخت بد قسمت ہیں۔

جب بے تبت۔ (ایشل) کبھی کبھی۔ گاہ۔ گاہ۔

جب تک۔ جب تک۔ جب توڑی۔ جب تیں۔ جس وقت تک۔ تا وقت تک۔ ایسے وقت تک۔

جب تک اوٹ بھاڑتے نہیں آتا سمجھتا ہے مجھ سے اونچا کوئی نہیں۔ (ایشل) جب تک اپنے سے زبردست سے پالانہ پڑے انسان اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہے۔

جب تک پچھرونا نہیں ماں دودھ نہیں دیتی۔ (ایشل) مانگے بغیر کچھ نہیں ملتا۔

جب تک بنو کواری تب تک ساس واری، ہو آئی گو و میں لاؤ گیا حوض میں۔ (ایشل) جب تک بیاہ کر نہیں لائی ہوتی ساس اپنی ہونے والی ہو کے واری صدف سے ہوتی جاتی ہے مگر شادی کے بعد سب لاڈ پیار ختم ہو جاتا ہے

شروع کر دیا تو پھر اس میں شرم کبھی۔

جب نہ تئب۔ (۱- تابع فعل)۔ (۱) وقتاً فوقتاً۔ وقت بے وقت (۲) اکثر۔ ہمیشہ۔ عموماً۔ (۳) کبھی نہیں۔ (۴)

جب ہاتھ میں لیا کانسٹورویوں کا کیا سانس۔ (۱- شش) (۲) جھیک مانگنی شروع کر دی تو روٹیوں کی کیا کمی۔

جب ہم جانتے۔ (۱- مغول) لطف تو جب تھا۔

جب ہی۔ (جھی)۔ اسی وقت۔ عین اسی وقت۔ جوں ہی کہ۔

جب ہی تو۔ اسی لیے۔ اس وجہ سے۔ اسی باعث۔ اسی سے۔

جب اب۔ (ج۔ باب) [ق۔ ۱۔ مذ] جواب۔

چہتا۔ (جہت۔ بار) [ع۔ صفت] (۱) چہ کرنے والا۔ ظالم۔ جار۔ (۲) زبردست (۳) رال کے سلبقے کے ساتھ) خدا تعالیٰ کا ایک صفاتی نام۔

چہاں۔ (ج۔ بال) [ع۔ ۱۔ مذ] جبل (پہاڑ) کی جمع۔

چہڑ۔ [ع۔ ۱۔ مذ] (۱) ظلم۔ ستم۔ سینہ زوری۔ (۲) سختی۔ مجبور کرنا (۳) زور۔ طاقت۔ (۴) حساب میں کسرول کا اختصار کرنا۔ (۵) معاوضے کے طور پر کچھ زیادہ لینا۔ ڈنڈ۔

چہڑاٹھانا۔ (۱- معاوضہ) سختی چھیننا۔ دکھ اٹھانا۔

چہڑے۔ زبردستی۔ بہ زور۔

چہڑ کرنا۔ (مص۔ مرکب) ظلم کرنا۔ سختی سے کام لینا۔ سنانا۔ دبانا۔

چہڑ کرنا۔

چہڑمانہ۔ (ف۔ ۱۔ مذ) ایسا چہڑنا جو ناچار نہ ہو۔

چہڑو لعدی۔ (ع۔ ف۔ ۱۔ مٹ) زبردستی۔ جو رجحان ظلم و

ستم۔

چہڑو مقالم۔ ریاضی کی ایک شاخ جس میں علامات اور حروف کے

ذریعہ عمل کیا جاتا ہے اور معلومہ مقادروں کے وسیلے سے مجموعہ

مقدار میں معلوم کی جاتی ہیں۔

چہڑو نما۔ (۱- معاوضہ) ظلم ہونا۔ سختی ہونا۔

چہڑا۔ (جہت۔ را) [ا۔ صفت] زبردست۔ طاقت ور۔ قوی۔

چہڑا۔ (جہت۔ را) [ع۔ تابع فعل] زبردستی۔ مجبور کر کے۔ بہ زور۔

چہڑا بھرنی کرنا۔ (۱- معاوضہ) زبردستی فوج میں بھرتی کرنا۔

چہڑا و قہرا۔ (ع۔ مذ) چارونامیہ۔ مجبور۔

چہڑا بیل۔ (جہت۔ بیل) چہڑیل۔ (جہت۔ را۔ بیل) جہت۔ را۔ ایل،

جہت۔ بیل) [ع۔ ۱۔ مذ] چار مقرب فرشتوں میں سے ایک

فرشتہ کا نام جو پیروں کے پاس خدائی طرف سے وحی لے کر

آیا کرتے تھے۔

چہڑوت۔ (جہت۔ روت) [ع۔ ۱۔ مٹ] (۱) قدرت۔ بزرگی۔ عظمت۔

جاہ و جلال۔ اہم صفات الہی۔

چہڑتہ۔ (جہت۔ ری۔ نہ) [ع۔ صفت] (۱) مجبور کر کے۔ زبردستی (۲)

اسلام کا ایک فرقہ جس کا اعتقاد ہے کہ انسان کو اپنے اعمال افعال

پر کوئی اختیار نہیں ہے۔

چہڑا۔ (جہت۔ را) [ع۔ ۱۔ مذ] ذہن کی تہی کا وہ حصہ جس میں دانش

بڑھتے ہوئے ہیں۔ گلہ۔

چہڑا توڑنا۔ (۱- معاوضہ) ضرب سے منہ توڑ دینا۔

چہڑا چلانا۔ (۱- معاوضہ) کوئی چیز کھانا۔ منہ چلانا۔

چہڑی۔ (جہت۔ ری) [ع۔ ۱۔ مٹ] ایک منکب بیماری جس میں جڑے

بند ہو جاتے ہیں۔ یا تیسری جگہ جاتی ہے۔

چہڑن۔ (ج۔ بن) [ع۔ ۱۔ مذ] پہاڑ۔ کوہ۔ جمع: جہال۔

چہڑن بگڑو جہت ہی گردو۔ (۱- مٹ) پہاڑ بدل سکتے ہیں مگر انسان

کی سرشت کبھی نہیں بدلتی۔

چہڑت۔ (ج۔ بن۔ لٹ) [ع۔ ۱۔ مٹ] سرشت۔ فطرت۔ اصلی

طبیعت۔ مہلقت۔

چہڑتی۔ (ج۔ بن۔ ری) [ع۔ صفت] فطری۔ پیدائشی۔ تعلق۔ طبعی۔ حقیقی۔

چہڑتین۔ (ج۔ بن) [ع۔ ۱۔ مذ] (۱) بڑولی۔ کم ہستی۔ (۲) وہ سفید مادہ جو

دودھ بھاڑ کر نکالا جائے۔ پیپر۔

چہڑو۔ (جہت۔ لو) [ع۔ ۱۔ مٹ] پیچیدہ۔ زبان۔

چہڑو۔ (جہت۔ بہ) [ع۔ ۱۔ مذ] چوہ۔ ایک قسم کا ڈھیلہ کوٹ جس کی

آستین کلائی سے اوپر رہتی ہے۔ عالم لوگ پہنتے ہیں۔

چہڑا۔ (ج۔ بھا) [ع۔ ۱۔ مذ] (۱) دلیری۔ جوصلہ۔ (۲) چہڑا۔

چہڑہ۔ (جہت۔ بہن) [ع۔ ۱۔ مذ] چہڑے کا وہ حصہ جو ابروؤں کے درمیان

ہوتا ہے۔ [ف۔ پیشانی۔ مانخا۔ جبین۔

چہڑہ سا۔ (ف۔ صفت) ماتھا کر گرنے والا۔ مہنت سماجت کرنے والا۔

چہڑہ سانی کرنا۔ (ف۔ ۱۔ مٹ) ماتھا کر گرنے والا۔ مہنت سماجت کرنا۔

پاؤں پڑنا۔

چہڑما۔ (جہت۔ بھا) [ع۔ صفت] زبان والا۔ مرکبات میں استعمال

ہوتا ہے۔ پیسے گل جہا (یعنی بڑی بات منہ سے نکلنے والا۔

جبین۔ (ج۔ بن) [ع۔ ۱۔ مٹ] پیشانی۔ مانخا۔

جبین سا۔ جبین فرسا۔ (ف۔ صفت) ماتھا کر گرنے والا۔

جبین سانی۔ جبین فرسانی۔ (ف۔ ۱۔ مٹ) ماتھا کر گرنے والا۔ عجس۔

انگھاری کرنا۔ نحو شاد۔

ج - پ

جہت۔ (س۔ ۱۔ مٹ) [۱] پوجا پاٹ۔ پرستش۔ ورو۔ (۲) مالا پھیرنا۔

(۳) وظیفہ۔ (۴) کوئی لفظ یا کلمہ بار بار پھیرنا۔

جہت۔ (س۔ ۱۔ مٹ) [۱] عبادت۔ بندگی۔ پوجا۔ ریاضت۔ پرستش۔

جہت۔ (س۔ ۱۔ مٹ) [۱] سکھوں کی مفرد کتاب۔ مگر تھ صاحب

کا پہلا حصہ جس میں خدا کی حمد ہے۔

چب کرنا۔ (میں۔ مرکب) کسی طلب یا مراد یا بیماری کی تندرستی کے لیے پوجا پاٹ کرنا یا منتر پڑھوانا۔
 چب کے برتنے پاپ۔ (دش) پارسائی کی آڑ میں لوگوں کو ٹھکانا۔
 نیک بن کر بدی ٹھکانا۔
 چب مال۔ (میں۔ حق) بیس۔
 چب مالا۔ (دہ۔ مرث) بیس۔
 چبا کرنا۔ (رج۔ پا۔ کرنا) [ہ۔ میں] رٹنا۔ بار بار کرنا یا پڑھنا۔ مالا پھیرنا۔
 چب سم۔ (Jypsum) [انگ۔ ۱۔ مذ] ایک پتھر یا وحاح جس سے پلاسٹک تیار ہوتا ہے۔
 چبسی (Gypsy) [چب۔ سی] [انگ۔ ۱۔ مذ] خانہ بدوش۔
 چبنا۔ (چب۔ نا) [ہ۔ میں] [۱] پوجا کرنا۔ بیس پڑھنا۔ خدا کو یاد کرنا۔
 چبنا۔ (چب۔ نا) [ق۔ میں] چبنا۔
 چبنی۔ (چب۔ نی) [س۔ ۱۔ مرث] [۱] مالا۔ بیس۔ (۲) وظیفہ۔
 چبنی۔ (رج۔ پی۔ ت۔ پی) [۱۔ ۱۔ مذ] عابد۔ زاہد۔ پجاری۔
 چبکت۔

دینا۔
 چٹانا۔ (رج۔ ٹانا) [ہ۔ میں] [۱] زمین میں بل چلانا۔ اراضی کو کاشت کروانا (۲) گھوڑے یا بیل وغیرہ کو گاڑی میں لگانا۔
 چٹاؤ۔ (رج۔ ٹا۔ او) [ہ۔ ۱۔ مرث] [۱] قابل کاشت۔ بولنے جوتنے کے قابل۔
 چٹائی۔ (رج۔ ٹا۔ ای) [ہ۔ ۱۔ مرث] کھیت میں بل چلانا۔ اراضی کی کاشت ہونا۔
 چٹیر۔ (جٹ۔ برز) [ق] [خانہ داری]۔
 چٹیری۔ (جٹ۔ ب۔ ری) [ق] [۱۔ مرث] [خانہ داری]۔ گھر گرسٹن۔
 چٹ جانا۔ [ہ۔ میں] [۱] گھوڑے کا گاڑی میں یا مویشی کا بیٹلے یا بیل میں جوت دیا جانا۔ (۲) کسی کام میں ہمت ناک جانا۔
 چٹرب۔ (جٹ۔ رب) [ق] [شبیوہ۔ شعار]۔
 چٹن۔ (رج۔ ٹن) [۱۔ ۱۔ مذ] [۱] کوشش۔ (۲) محنت۔ (۳) محنت۔ (۴) محنت۔ (۵) احتیاط۔ خبر داری۔ (۶) تکلیف دہ کام (۷) ڈھنگ۔ طریقہ۔ (۸) بہانہ۔ مکرو فریب (۹) کرتوت۔ افعال۔ (۱۰) ڈینا۔ علاقہ۔ (۱۱) استقلال۔
 چٹنا۔ (جٹ۔ ٹا) [ہ۔ میں] [۱] گھوڑے یا بیل وغیرہ کا گاڑی یا بیل میں لگانا جانا۔ (۲) کھیت کا چٹنا جانا۔ (۳) کسی کام میں مشغول ہونا۔ (۴) کسی کام پر زبردستی لگانا جانا۔ (۵) جا لڑنا۔ جا بھرنا۔ (۶) کوشش کرنا۔

ج۔ ت

جکت۔ (ہ۔ مرث) قسم۔ نوع۔ طریقہ۔ (۲) جولی کا ایک گیت۔ (۳) آلہ۔ مبین۔ (۴) جیسا۔ چٹنا۔
 جت۔ (ہ۔ مرث) جہاں جس جگہ۔ (۲) فتح کیا ہوا۔ کامیابی۔
 جٹ۔ (ہ۔ صفت) چٹا ہوا۔ (۲) جڑا ہوا۔ قابض۔
 چٹنا۔ (جٹ۔ ٹا) [ہ۔ صفت] چٹنا کی مختصر صورت۔ چٹنا کا مخفف۔
 چٹا۔ (ج۔ ٹا) [ہ۔ ۱۔ مرث] [۱] وہ رسی جو چرک اور اس کی لکڑی سے بندھی ہوتی ہے۔
 چٹاٹا۔ (رج۔ ٹا۔ ٹا) [ق۔ ۱۔ مذ] خاندان۔ گھرانہ۔ نسل۔
 چٹا ساری۔ (رج۔ ٹا۔ ساری) [ہ۔ ۱۔ مرث] [۱] وہ گیت جو عورتیں چکتی بیٹے میں گاتی ہیں۔ (چٹا بمعنی چکتی)
 چٹانا۔ چٹا دینا۔ چٹلانا۔ (رج۔ ٹانا، رج۔ ٹا۔ وے۔ نا، جٹ۔ لا۔ نا) [ہ۔ میں] [۱] آگاہ کرنا۔ خبر دار کرنا۔ بتانا۔ ہوشیار کرنا (۲) تاکید کرنا۔ (۳) یاد دلانا (۴) اشارہ کرنا (۵) ہدایت کرنا۔ رہنمائی کرنا۔ (۶) ہوش کرنا۔ (۷) تنبیہ کرنا۔ کان کھولنا۔ ہٹاکش کرنا (۸) کسی جذبے کا اظہار کرنا۔
 چٹانا۔ چٹلانا۔ چٹوانا۔ چٹوا دینا۔ (رج۔ ٹانا، رجٹ۔ لا۔ نا، جٹ۔ وا۔ نا، جٹ۔ وا۔ وے۔ نا) [ہ۔ میں] [۱] فتح دلوانا۔ جیت کرنا۔ دینا۔ غلبہ کرنا۔ دینا۔ بازی۔ دلوانا۔ ہار سے بچانا۔ پانسہ پلٹ

چٹنا۔ (جٹ۔ ٹا) [ہ۔ صفت] [۱] جس قدر، جو کچھ (۲) سب۔ سارا۔ گل۔ تمام۔
 چٹنا اور ہے آٹا ہی نیچے ہے۔ (دیشل) شرارت پسند اور مفید آدمی کے ہارے میں کہتے ہیں۔
 چٹنا اور ٹھنڈا ہونے ہی پاؤں پھیلانا۔ (دیشل) اپنی حیثیت اور بساط کے مطابق خرچ کرنا چاہئے۔ چٹنی چادر ہوا ہونے پاؤں پھیلانا۔
 چٹنا بڑا آٹا کوٹل۔ (دیشل) چٹنا عمر میں زیادہ آٹا ہی زیادہ خراب۔
 چٹنا پھیلے آٹا جگے۔ (دیشل) آدمی کی حیثیت۔ چٹنی اونچی ہونے آٹا ہی جھک کر ملنا چاہئے۔
 چٹنا پینے کا آٹا ہی برسے گا۔ (دیشل) گرمیوں میں چٹنی زیادہ گرمی پڑے گی برسات میں آٹنی ہی زیادہ بارش ہوگی۔
 چٹنا چھانوسے آٹا ہی کر کرے گا۔ (دیشل) چٹنی زیادہ چھانوسے کرے گا۔
 چٹنا چھوٹا آٹا ہی کھولنا۔ (دیشل) [۱] چھوٹا دشمن اور جی زیادہ نقصان پہنچاتا ہے۔ (۲) کو عمر راستہ قدر شریک کی بابت کہتے ہیں۔
 چٹنا دسے کا آٹا پائے گا۔ (دیشل) [۱] چٹنا خدا کی راہ میں خرچ کرے گا۔ آٹا ہی بل جائے گا۔ (۲) چٹنا خرچ کرے گا۔ آٹا پھر آجائے گا۔

جنڈ بائی - (جنڈ - با - تی) [فت - صفت] (۱) جو دوسروں کی باتوں کا جلد اثر لے۔
 (۲) جو جلد غصے میں آجائے۔ (۳) جنڈ بات پرست۔
 جنڈ بیہ - (جنڈ - بیہ) [ع - ا - مذ] (۱) دل کا جوش بخشش - دلولہ (۲) [اُردو] غصتہ۔
 جنڈ ز - (ع - ا - مذ) [ع - ا - مذ] (۱) علم ریاضی میں کوئی عدد اس رقم کا جنڈ رکھنا ہے جو اس کو اسی کے ساتھ ضرب دینے سے حاصل ہوتا ہے (۲) مادہ - اصل۔
 (۳) بنیاد - بنا - مہیا - اہمیت۔
 جنڈراصم - (ع - ا - مذ) وہ عدد جس کا جنڈ نہ نکل سکے
 جنڈراکعب - کوئی عدد اس رقم کا جنڈراکعب رکھنا ہے جو اس کو اسی کے ساتھ تین دفعہ ضرب دینے سے حاصل ہو۔
 جنڈرالمال - (ع - ا - مذ) وہ عدد اس رقم کا جنڈرالمال رکھنا ہے جو اس کو اسی کے ساتھ چار دفعہ ضرب دینے سے حاصل ہو۔ پیسے ۲۴ × ۲۴ × ۲۴ = ۱۶ × ۱۶ کا جنڈرالمال ہے۔
 جنڈرناطق - (ع - ا - مذ) کسی رقم کا وہ جنڈ جو معلوم ہو سکے۔
 جنڈر شکانا - دوسرے دے جانے کا نام معلوم کرنا۔

کا آلہ - ٹول - ٹٹہ۔
 جنڈولی - (جنڈ - ولی) [ع - صفت] لکیر وار - لکیر کھینچی ہوئیں۔
 جنڈہ - (جنڈ - ذہ) [ع - ا - مرث] (۱) واوی (۲) نانی (۳) حجاز کے ایک شہر کا نام جو بندرگاہ بھی ہے۔
 جدھر - (ج - دھر) [صفت - ہ] جہاں - جس جگہ - جس طرف - جہاں کہیں۔
 جدھر دیکھتا ہوں اودھر تو بھی تو ہے۔ (ایش) (۱) خدا کی قدرت کے کرشمے ہر طرف نظر آتے ہیں (۲) عاشق کو ہر جگہ محبوب کا جلوہ دکھائی دیتا ہے۔
 جدھر رب اودھر سب - (ایش) جس پر خدا مہربان ہوتا ہے اس پر سب مہربان ہو جاتے ہیں۔ (خلا مہربان تو سب مہربان)
 جدھر مولانا اودھر دولہ - (ایش) جس پر خدا مہربان ہو اس پر بندے بھی مہربان ہوتے ہیں۔ دولہ سے مراد حضرت شاہ دولہ جن کا مزار گجرات میں ہے۔
 جدھر نوان اودھر پانی ڈھلتا ہے۔ (ایش) کمزوروں پر ہی مہبتیں آتی ہیں۔
 جدی - (جنڈ - دی) [ع - صفت] (۱) ایک واوا کی اولاد۔ (۲) آبائی - موروثی۔
 جدی جا بڈاؤ - وہ جا بڈاؤ جو بزرگوں سے نر کے میں چلی آ رہی ہو۔
 موروثی جا بڈاؤ۔

ج - ۱

جہت - (ج - ا - مذ) [ع - ا - مذ] (۱) کھنچاؤ (۲) کسرہ (۳) بنیاد۔ (۴) پختہ حصہ۔
 جہت قبیل - (ع - ا - مذ) بھاری کوچھ کھینچنے اور اٹھانے کا آلہ۔
 جہڑاب - (جہڑ - راب) [ع - ا - مرث] آموزہ۔
 جہڑاٹ - (جہڑ - اٹ) [ع - ا - مرث] (۱) دلیری۔ (۲) دلوری۔ شجاعت۔
 بے باکی - جہاں مردی (۲) چالاک - شوخی (۳) اُردو کے صاحب دیوان شاعر شیخ قلندر بخش کا مخلص۔
 جہڑاٹ دکھانا۔ (۱) بخادرہ، دلیری یا سہادری کا کام کرنا
 جہڑاٹیم - (ج - را - ٹیم) [ف - ا - مذ] وہ چھوٹے چھوٹے کیڑے جو ہر چیز کے زیر اندر موجود رہتے ہیں اور جن سے جسم میں منتقل بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔
 جہڑاٹیم کش - (ع - ف - صفت) جس سے کہ جہڑاٹیم پاک کیے جائیں۔
 جہڑاٹ - (جہڑ - راٹ) [ع - ا - مذ] (۱) وہ شخص جو زخموں اور چھوڑے چھبیلوں کا علاج کرے۔ زخموں کی چیر بھار کرنے والا۔ زخمن۔
 جہڑاٹحت - (ج - را - نحت) [ع - ا - مرث] زخم۔ گھاؤ۔
 جہڑاٹحی - (جہڑ - را - حی) [ع - ا - مرث] جہڑاٹ کا پیشہ۔ زخموں کا علاج۔ ڈاکٹر کی چیر بھار۔
 جہڑاٹحیات - (ج - را - ح - بات) [ف - ا - مرث] (Surgery) زخم کے علاج کا پیشہ۔ جہڑاٹحی چیر بھار۔ فساد دی۔
 جہڑاٹ - (جہڑاٹ - ر) [ع - صفت] (۱) بہت بھاری پاکٹر لشکر۔ (۲) بہادر۔ دلیر۔
 دلادر - (۳) کھینچنے والا۔ تیز رفتاری سے روکنے والا۔
 جہڑاٹبڈ - (ج - لا - ٹبڈ) [ع - ا - مذ] جمیرہ کے کی جمع۔ اخبارات۔ رسالے۔

جدی - (ج - دی) [ع - ا - مذ] (۱) زمین کے گرد ایک قیاسی دائرہ جو خط استوا کے متوازی اس سے ۲۳ ۱/۲ درجہ جنوب میں ہے اور خط جدی رکھتا ہے۔ قطبی تارا (۳) آسمان کا ایک برج جو بکر سے کی شکل کا نظر آتا ہے۔
 جدید - (ج - دید) [ع - صفت] (۱) نیا۔ نیا تازہ۔ اب کا (۲) عروض میں ایک سحر کا نام۔
 جدیدیت - (ع - ا - مرث) نیا پن۔ جدید ہونے کی کیفیت (انگ) (Modernism)

ج - ذ

جہڑام - (ج - ذام) [ع - ا - مذ] کوڑھ۔ فداؤ خون کی ایک بیماری۔
 جہڑام خانہ - (ع - ف - مذ) کوڑھیوں کی قیام گاہ۔ کوڑھی گھر۔
 جہڑامی - (ج - ذام - می) [ع - صفت] جو مرض جہڑام میں مبتلا ہو۔ کوڑھی۔
 جذب - (ع - ا - مذ) [ع - صفت] کشش۔ کھینچنا۔ (۲) چوسنا۔ جذب کرنا۔
 (۳) وہ حالت جو مجذوب نفسیوں کے لیے مخصوص ہے۔
 جذب کرنا۔ (۱) چوسنا کھینچنا کشش کرنا (۲) لہانا۔ نال کرنا۔
 جذب مفتحنا طیبسی - (ع - ا - ف - صفت) مفتحنا طیس کی کشش۔
 جذباتش - (جہڑ - بات) [ف - ا - مذ] جذبے کی جمع۔

جرام - (ج - وا - ام) (ع - ۱ - مذ) جریمہ کی جمع - بدلت سے جرم
 جراثیم - (ج - وا - ام) (ع - ۱ - مذ) جو جرم کرنے کو اپنا پیشہ بنائے - عادی جرم
 سبجرت - سبجرت - (ج - ز - مت - ج - ثرت) (ق - صفت) اجڑا ہوا - بڑاؤ -
 جبرئیل - (ج - ز - نو - نہ) (ع - ۱ - مذ) وہ چھوٹا کبیرا جو خوردبین کے بغیر نظر
 نہیں آتا - (Bacterium) (جمع - جراثیم -
 جبرئیل - (ج - ز - نو - م - یات) (ع - ۱ - صفت) علم جراثیم -
 (Bacteriology)
 جراثیمات والی - ماہر علم جراثیم (Bacteriologist)
 جراثیماتی - (ج - ز - نو - م - یاتی) (ق - صفت) علم جراثیم سے متعلق
 (Bacteriological)
 جراح - (ج - وا - مذ) (۱) زخم - گھاؤ - چیر - (۲) وہ سوالات جو ایک فریق (دوسرے
 سے حقیقت یا سچائی معلوم کرنے کے لیے کرے -
 جراح کرنا - (مصل - مرکب) فریق مخالف کے وہیوں یا گواہ سے سوالات
 کرنا -
 جب - (ج - ز - ن) (ع - ۱ - مذ) (۱) گھنٹہ - گھڑیاں (۲) وہ گھنٹہ جو نالے
 کی روانگی کے وقت بجایا جاتا ہے - (۳) آواز - بانگ - در -
 جرسی - (Jersey) (ج - ز - سی) (انگ - ۱ - صفت) (۱) اونی بلیاں
 جو ورزشی کھیلوں کے وقت پہنا جاتا ہے (۲) آستینوں کا اونی
 بنیان -
 جزعہ - (ج - ز - فہ) (ع - ۱ - مذ) (۱) گھونٹ - اتنی مقدار جو ایک دفعہ
 پیلی جاتی ہے -
 جزعہ کش - (ف - صفت) جزعہ نوش - گھونٹ گھونٹ کر کے پینے والا -
 جزعہ کشی - (ف - ۱ - صفت) گھونٹ گھونٹ کر کے پینا -
 جزعہ نوشی کرنا - (۱ - محاورہ) گھونٹ گھونٹ کر کے پینا -
 جرگہ - (ج - ز - گ - ز - ف) (ع - ۱ - مذ) (۱) آدمیوں کا مجمع (۲) گروہ - جماعت (۳)
 پچائیت دم - جانوروں کا گتھ - (۵) (سرمدی قبائلی علاقے میں) وہ
 جماعت جو سنگین مقدمات یا اہم معاملات کے بارے میں فیصلہ
 دیتی ہے -
 جرگہ آنا - (۱ - محاورہ) پچانوں کی جماعت یا گروہ یا وفد کا کسی کام کیلئے
 کسی امر کے پاس آنا -
 جرگہ پھانا - جرگہ کھلانا - (۱ - محاورہ) کسی مقدمے یا معاملے کے بارے میں
 فیصلہ طلب کرنے کے لیے جرگہ منظر کرنا -
 جرگہ بندی - جماعت قائم کرنا - پچائیت قائم کرنا - جرگہ بنانا -
 جرگہ بیٹھنا - (۱ - محاورہ) کسی مقدمے کے فیصلے کے لیے جرگہ اکٹھا ہونا -
 جرگے جمع ہونا - (۱ - محاورہ) پچانوں کے بہت سے گروہوں یا جماعتوں
 کا کسی اہم مسئلے کے سلسلے میں اکٹھا ہونا یا ہر سوڑ کر بیٹھنا -
 جرگے میں بیٹھنا - (۱ - محاورہ) کوئی مقدمہ سماعت یا فیصلے کے لیے جرگے
 کے سپرد کرنا -

جرم - (Germ) (انگ - ۱ - مذ) (۱) حیوانات اور نباتات کی ابتدائی
 شکل - (۲) کسی بیماری کے بہت باریک کیڑے - (۳) اصل - آغاز -
 جرم - (ع - ۱ - مذ) (۱) جسم - بدن - وہڑ - تن - جیشہ (۲) فوری یا طبعیت جسم
 جمع اجرام - (۱) ان معنوں میں علوم تعلیمات - معدنیات - جمادات
 پر اطلاق ہوتا ہے - (۲) نیکے کا عیب -
 جرم - (ع - ۱ - مذ) (۱) تصور - خطا - تقصیر - (۲) گناہ - پاپ - خلاف قانون
 حرکت - قابل مزا فعل -
 جرم خفیف - (ع - ۱ - صفت) معمولی جرم - ہلکا سا جرم جو جرمانہ بھرنے
 سے معاف ہو جاتا ہے -
 جرم سنگین - (ع - ۱ - صفت) سخت جرم - بڑا جرم -
 جرم کا از کتاب کرنا - (۱ - محاورہ) جرم کرنا - جرم بن جانا - قابل مزا کام
 کرنا - جرم کر لینا -
 جرم کا اقبال کرنا - (۱ - محاورہ) تقصیر کرنا - اپنے جرم کو مان لینا -
 جرم کبیرہ - (ع - ۱ - صفت) سنگین جرم -
 جرم واجب القتل - (ع - ۱ - مذ) جرم جن کی سزا میں جرم کو پھانسی
 دی جاتی ہے -
 جرمانا (ج - ز - نا) (ف - ۱ - مذ) وہ روپیہ جو کسی جرم اضطراری کی پاداش
 میں وصول کیا جاتی ہے - ٹونڈ - تاوان - مالی مزا -
 جرمانہ بھر دینا - جرمانہ بھرنا - (۱ - محاورہ) ٹونڈ دے دینا - تاوان کی
 رقم ادا یا داخل کر دینا -
 جرمن - (German) (ج - ز - ن) (انگ - ۱ - مذ) جرمنی کا باشندہ - جرمنی
 کی سٹی زبان - جرمنی سے منسوب -
 جرمن سلور (Germansilver) (۱) ایک مرکب دھات جو
 چاندی کی مانند شبیہ ہوتی ہے -
 جرمنیات - (ج - ز - می - یات) (ع - ۱ - مذ) علم تقنین جراثیم -
 جزنا - (ق - صفت) اجنبی کر لینا - خشک ہو جانا -
 جزئ (ج - ز - ن) (انگ - ۱ - مذ) (۱) روزنامہ یا روزانہ اخبار -
 روزنامہ یا روزانہ اخبار -
 جزئلزم - (Journalism) (ج - ز - ن) (انگ - ۱ - مذ) صحافت -
 اخبار نویس -
 جزئلٹ - (ج - ز - ن) (انگ - ۱ - مذ) [انگ - ۱ - مذ] صحافت -
 صحافتی - اخبار نویس -
 جزئ (ع - ۱ - مذ) (General) (انگ - ۱ - مذ) فوج کا اسٹل
 عمدہ پار - سپہ سالار -
 جزئلی - (۱ - صفت) جزئلی سے منسوب - فوجی - بڑا - وسیع -
 جزو - (ق - ۱ - مذ) حصہ - سوا -
 جزوا - (ق - صفت) اجنبی کر وہ -
 جزوا - (ج - ز - وا) (۱ - ۵ - مؤنث) اجرو کی تغیر (۱) بیوی -
 جزوا - (ق - صفت) کشیدگی کوئی شراب -

جرڈونا - (حج - ٹر) (نا) (ق) مص [ضبط کرنا۔

جرڈونا - (حج - ٹر) (نا) (ق) مص [ہضم ہونا۔ پینا۔

جرڈہ - (حج - ری) (ف) - ۱۔ مذ [باز۔ ایک شکاری پرندہ۔

جرڈی - (حج - ری) (ع) - صفت [نڈر۔ شیر دل۔ بہادر۔ شجاع۔ دلاور۔

شیر دل۔

جرڈی جڈہ - (حج - ری) (جڈ) - (۱۰-۵) [داقی بنار۔ دھیمی حرارت۔

تپ مزمنہ۔

جرڈیان - (حج - بیان) (ع - ۱۔ مذ) [۱۱] ہماؤ۔ رسنے کا عمل۔ (۲) [اُردو]

ایک مرض جس میں پیشاب کے ساتھ باعد میں یا پسے سنی نکلتی ہے۔

جرڈیان آب - ایک زمانہ مرض۔ پانی چھوٹنا۔ سیلان الرحمہ کی گویا۔

جرڈیب - (حج - ربیب) (ع - ۱۔ صفت) [۱۱] زمین لپنے کا ایک خاص پیمانہ۔

(۲) عصا۔ لاشی۔ (۳) گہیوں کو لپنے کا پیمانہ جو چوڑی میں پیر کے برابر

ہوتا ہے (۴) زمین کا ایک گھجے کے برابر ماپ (۵) ریشم کی وہ ڈوری

جس سے بادشاہوں کے جلوس کے ساتھ فاصلہ مپا کرتے تھے۔

جرڈیب چھینکنا۔ (۱) محاورہ [جرڈیب سے زمین کی سپائش کرنا۔

جرڈیب چلا کرنا۔ جرڈیب ڈالنا۔ (۱) محاورہ [لاشی چھینکنا۔ ایک کھیل،

جس شخص کی لاشی سب سے زیادہ ڈور جاتی ہے وہی جیتتا ہے۔

جرڈیب کشی - (ف - صفت) [وہ شخص جو جرڈیب کھینچے۔ سپائش کرنے والا۔

کھیت لپنے والا۔

جرڈیب کشی - (ف - ۱۔ صفت) [۱۱] جرڈیب کش کا پیشہ یا ہ مہیا عدہ - (۲)

پیمائش الاراضی۔

جرڈیب پلنا۔ جرڈیب پینا۔ زمین کا جرڈیب کے ذریعے مپا پانا یا جاننا۔

(دشابان منلیہ کی سواری کے آگے میردہ زمین مپتے ہوئے چلا کرتے

تھے)۔

جرڈیب - (ع - صفت) [زخمی گھائل۔

جرڈید - (ع - ۱۔ مذ) [مجر کی صاف نشی۔

(۲) ایک قسم کا نیزہ جو چھینکا جاتا ہے۔

جرڈید ۵ - (حج - ری) (وہ) [ع - صفت] [۱۱] اکیلا۔ مجر تو۔ مغز و برتن واحد۔

(۲) کوڑی جس پر شمار کے نشان بنے ہوئے ہوں۔ (۳) حساب کا دفتر

(۴) مہی حساب کی کتاب (۵) اخبار جمع جرائد۔

جرڈیمانہ - (حج - ری) (ما - مذ) [اُر - ۱۔ مذ] [دیکھیے جرڈمانہ۔

جرڈیبہ - (ع - ۱۔ مذ) [گناہ خطا قصور۔

تمام رگیں۔ بیخ و بنیاد۔

جرڈ پانال تک پہنچنا [ٹر] [جرڈست گران تک اترنا۔ پانال جو جانا۔

جرڈ پکڑنا۔ (۱) جرڈنا۔ مضبوط جو جانا (۲) پورے کا زمین میں جم جانا۔

جرڈ پیڑ سے اکھاڑ دینا۔ (اکھاڑنا) کھو کر چھینک دینا۔ (۱) محاورہ

برباد کر دینا۔ اُجاڑ دینا۔ نام و نشان باقی نہ رکھنا۔

جرڈ چمانا۔ (۱) محاورہ [مضبوط کرنا۔ استحکام دینا۔ قائم کرنا۔ ٹھیرانا۔

جرڈ چمنا۔ (۱) محاورہ [مضبوط ہونا۔ قائم ہونا۔

جرڈ سے بہینوں سے یاری۔ (لاشلی) [بزرگوں یا بڑوں سے دشمنی

گمراہی اور دست دوستی۔

جرڈ سے ناک کاٹنا۔ (۱) محاورہ [۱۱] پوری ناک کاٹنا۔ (۲) بہت زیادہ

ذہل و خوار کرنا۔

جرڈ کاٹنا۔ (مص - مرکب) [۱۱] برباد کرنا۔ بنیادیں کھوڑنا (۲) کسی شخص

یا کاروبار کی ترقی کے بنیاد کی ذرائع پر چوٹ لگانا۔

جرڈ کاٹے جائیں پانی دیے جائیں۔ اندر خانے نقصان کرنے

رہیں اور بظاہر سہرا دیتے رہیں۔

جرڈ کو پکڑو، شاخوں کو کپوں پکڑتے ہو۔ (۱) مثل [۱۱] معاش کی اصل

کی طرف توجہ کرو۔ فضول باتوں میں نہ پڑو۔

جرڈوں میں پانی دینا۔ (۱) محاورہ [نقصان پہنچانا۔ تباہی کی سازش

کرنا۔

جرڈاٹ - (حج - ٹا - ث) [ق - ۱۔ صفت] [جڑنا۔ وصل۔

جرڈاٹ (حج - ٹا - ڈٹ) [۱۰-۵] [صفت] [جڑنے کا کام۔ مرتع کاری۔

جرڈ اور، جرڈ اول - (حج - ٹا - و - ۱۔ ص) [۱۰-۵] [صفت] [جائے

کے کپڑے۔ گرم کپڑے۔

جرڈاؤ - (حج - ٹا - او) [۵-۱۰] [صفت] [اجراہرات سے جڑا ہوا۔ مرتع۔

جرڈانی - (حج - ٹا - ای) [۱۰-۵] [صفت] [۱۱] جڑوانے کا کام۔ مرتع کاری (۲)

جڑنے کی مزدوری۔

جرڈاپ - (حج - ٹپ) [ق - ۱۔ صفت] [جھاڑی

جرڈاپٹ - (حج - ٹٹ) [ق - ۱۔ صفت] [جڑاؤ۔ مرتع۔

جرڈتی نہیں ڈھکی ٹوٹی - دھری رہے سب دارو بوٹی۔ (۱)

موت کے آگے کوئی تدبیر نہیں چلتی (۲) جسے خدا بگاڑے اسے کوئی

امداد کام نہیں دیتی۔

جرڈ دینا۔ (جرڈ - و - نا) [۵-۱۰] [مص] [جڑنے کا کام ختم کر دینا۔

جرڈنا۔ (جرڈ - نا) [۵-۱۰] [مص] [۱۱] ملانا۔ جوڑنا (۲) کسی چیز کو کسی چیز میں بٹھانا۔

(۳) مارنا۔ لگانا۔ بھانا۔ (۴) نالاش کرنا۔ (۵) قیامت کرنا۔ (۶) شکایت

کرنا۔

جرڈنا (جرڈ - نا) [۵-۱۰] [مص] [۱۱] چکنا۔ چسپاں ہونا۔ (۲) پونہ ڈنا (۳) مبارزت

کرنا۔ (۴) شامل ہونا۔ شریک ہونا۔ (۵) حاصل ہونا یا نقد لگانا۔ (۶)

جمع ہونا۔ (۷) گاڑی وغیرہ میں بٹھانا۔

جرڈوات - (جرڈ - وات) [ق - صفت] [جڑنا۔ وصل ہونا۔

ح - ٹ

جرڈ [۱۰-۵] [مش] [۱۱] [بیخ - بن - مول - ۱۲] بنیاد۔ بنا۔ اصل۔

جرڈ اکھیڑنا۔ (۱) محاورہ [تباہ کرنا۔ برباد کرنا۔ ملبا ملبٹ کرنا۔ بیخ کنی کرنا۔

جرڈ بنیاد۔ جرڈ بیخ۔ جرڈ پیر۔ جرڈ مول۔ (۱) [مش] [بیخ - دہن - جرڈی

جڑواں - (جڑ۔ واں) [ہ۔ صفت] (۱) دو بچے جو اکٹھے پیدا ہوں۔ توام بچے (۲) دو چیزیں جو آپس میں ملی ہوئی ہوں۔
جڑواٹا - (جڑ۔ واٹا) [ہ۔ صفت] [جو اہرات یا مچھنے گوانا۔ جنت کاری کروانا۔
جڑھی - (ج۔ ٹھی) [ہ۔ ۱۔ موت] (۱) وہ دوا جو کسی درخت کی جڑ ہو۔ (۲) کچی کھنڈ کی جڑ جو سانپ کے کاٹنے پر زہر مرے کا کام دیتی ہے۔
جڑھی بوٹی - (ہ۔ ۱۔ مٹ) کسی درخت کے وہ جڑ پھول اور پتے وغیرہ جو دوا کے کام آتے ہیں۔
جڑیا - (جڑ۔ یا) [ہ۔ ۱۔ مذ] (۱) زہرات ہیں جو اہرات وغیرہ جڑنے والا (۲) جوہری (۳) آشنا۔ یار۔
جڑیلا - (ج۔ ٹی۔ لا) [ہ۔ صفت] [وہ نمونی شلغم یا چنڈر جس میں جڑیں نکل آئی ہوں۔

جڑو عظیم - (ع۔ ۱۔ مذ) بڑا حصہ۔
جڑو گل - (ع۔ صفت) (۱) گل چیز۔ (۲) تفصیل۔ ہر ایک بات (۳) [صفت] تمام پورے کا پورا۔ سب کا سب۔ سرتاسر۔
جڑو لائی تجزی - (ع۔ ۱۔ مذ) وہ چیز جس کے مزید ٹکڑے یا اجزاء نہ ہو سکیں۔ ماوے کا سب سے چھوٹا حصہ جو آگے تقسیم نہ ہو سکے۔ جوہر۔ ایٹم۔
جڑو لائی ننگ - (ع۔ ۱۔ مذ) وہ حصہ جو پلیدہ نہ ہو سکے۔
جڑوئی - (جڑوئی۔ وی۔ جڑوئی) [ج۔ صفت] (۱) [خال خال (۲) کچھ۔ چند (۳) خاص۔ مخصوص (۴) [موت] بہت تھوڑی سی (۵) ایک خاص بات (۶) [مذ] عقوراسا۔ حقیر۔ ضعیف۔ ادنیٰ۔
جڑوئیات - (جڑوئیات۔ ویات۔ جڑوئیات) [ج۔ صفت] (۱) [خال خال (۲) کچھ۔ چند (۳) خاص۔ مخصوص (۴) [موت] بہت تھوڑی سی (۵) ایک خاص بات (۶) [مذ] عقوراسا۔ حقیر۔ ضعیف۔ ادنیٰ۔
جڑوئی کی جمع (۱) فردعات (۲) افراد (۳) حصے (۴) چھوٹے چھوٹے امور۔

ج۔ ز

جڑو کا مخفف (۱) سوائے۔ علاوہ۔ بن۔ بدوں۔ ماورا۔
جڑو کا مضمون (۲) پارہ لکھا (۳) سولہ صفحوں کا مجموعہ۔ جمع۔ اجزاء۔
جڑو بندی - (ج۔ ۱۔ مٹ) کتاب کے اجزاء کو جلد بندی کے لیے سینا۔
جڑو دان - (ج۔ ۱۔ مذ) بستہ جس میں کتابیں رکھی جاتی ہیں۔
جڑو رس - (ج۔ صفت) [ج۔ ۱] [ج۔ ۲] کفایت شعار (۳) ذہین۔ ممکنہ نکل۔

جڑویرہ - (ج۔ زی۔ زہ) [ع۔ ۱۔ مذ] خشکی کا وہ قطعہ جس کے چاروں طرف پانی ہو۔ ٹاپو۔ دیب۔ جمع۔ ۱۔ جزائر۔
جڑویرہ نما - خشکی کا وہ قطعہ جس کے تین طرف پانی اور چوتھی طرف خشکی سے ملی ہوئی ہو۔

جڑویرہ - (ج۔ زی۔ زہ) [ع۔ ۱۔ مذ] اسلامی حکومت میں غیر مسلم پر تسلط حاصل ہونے کا وہ دور۔
جڑویرہ - (ج۔ زی۔ زہ) [ع۔ ۱۔ مذ] اسلامی حکومت میں غیر مسلم پر تسلط حاصل ہونے کا وہ دور۔
جڑویرہ - (ج۔ زی۔ زہ) [ع۔ ۱۔ مذ] اسلامی حکومت میں غیر مسلم پر تسلط حاصل ہونے کا وہ دور۔

ج۔ س

جڑویرہ - (ج۔ زی۔ زہ) [ع۔ ۱۔ مذ] اسلامی حکومت میں غیر مسلم پر تسلط حاصل ہونے کا وہ دور۔
جڑویرہ - (ج۔ زی۔ زہ) [ع۔ ۱۔ مذ] اسلامی حکومت میں غیر مسلم پر تسلط حاصل ہونے کا وہ دور۔
جڑویرہ - (ج۔ زی۔ زہ) [ع۔ ۱۔ مذ] اسلامی حکومت میں غیر مسلم پر تسلط حاصل ہونے کا وہ دور۔

جڑویرہ - (ج۔ زی۔ زہ) [ع۔ ۱۔ مذ] اسلامی حکومت میں غیر مسلم پر تسلط حاصل ہونے کا وہ دور۔
جڑویرہ - (ج۔ زی۔ زہ) [ع۔ ۱۔ مذ] اسلامی حکومت میں غیر مسلم پر تسلط حاصل ہونے کا وہ دور۔
جڑویرہ - (ج۔ زی۔ زہ) [ع۔ ۱۔ مذ] اسلامی حکومت میں غیر مسلم پر تسلط حاصل ہونے کا وہ دور۔

جس پر بھی (۱) باوجودیکہ تو بھی (۲) ساتھ اس کے۔ اس پر بھی۔
 جس نرس۔ ہر ایک بچہ نہ وہ بے گناہ۔ ادنیٰ داعی۔ جھلا دہرا۔ ہرگز نہ کا۔
 جس نرس لائے وہ ہی جانے۔ (۱-مثل) جس پر مصیبت پڑی ہو
 وہی اس کا حال جانتا ہے دوسروں کو کیا پتہ۔
 جس ہستی پر بیٹھے اسی کو کاٹے۔ (۱-مثل) دیکھو ضرب المثل جس
 برتن میں کھائے اسی میں چھید کرے۔
 جس جس۔ ہر شخص۔ ہر چیز۔ ہر ایک۔
 جس جس جگہ۔ جہاں کہیں۔ جہاں۔
 جس درخت کے سائے میں بیٹھے اسی کی جڑ کاٹے جس ڈالی
 بیٹھیں اسی کی جڑ کاٹیں۔ (مثل) دیکھو جس برتن میں کھائیں۔
 جس دم۔ جب۔ جس وقت۔ جس گدی۔ ہر گاہ۔
 جس راہ نہیں چلنا اس کے کوس کیا گناہ۔ (۱-مثل) جس کام کو کرنا ہی
 نہیں اس کے متعلق سوچنا بے فائدہ ہے۔
 جس شہر میں پھول بیچے وہاں دھول نہ اڑا لیتے۔ (۱-مثل) جس
 جگہ عزت سے وقت گزارا ہو، بے عزتی کے وقت وہاں سے
 کنارہ کرنا چاہیے۔
 جس طرح بیٹھے ہو اسی طرح چلے آؤ۔ (۱-مثل) فوراً یا جلد از جلد آہاؤ۔
 جس طرح پیچھے دکھائے جاتے ہو اسی طرح منہ دکھانا۔ (مثل)
 کوئی عزیز سفر پر جا رہا ہو تو اس کی واپسی کے بارے میں یہ کد کر نیک
 خواہشات کا اظہار کیا جاتا ہے۔
 جس قدر جتنا مقدار ظاہر کرنے کے لیے کہا جاتا ہے۔
 جس کا بنیا بار اس کو دشمن کیا درکار۔ (۱-مثل) بنیا دوستی کے پردے
 میں لوتتا ہے۔
 جس کا جائے وہی چور کماے۔ (۱-مثل) جس کا نقصان ہوا ہو وہی
 ملوٹ پٹھے۔
 جس کا پکینا دیکھا پھسل پڑے۔ (۱-مثل) جہاں فائدہ دیکھا وہاں
 پہنچ گئے۔ ابن الوقت کی نسبت کہتے ہیں۔
 جس کا حال دیکھیے، اس کا احوال کیا پوچھیے۔ (۱-مثل) جس کی
 ظاہری حالت ہی سے تباہ حالی آشکارا ہو، اس سے حال چال دریافت
 کرنے کی کیا ضرورت؟
 جس کا ڈور وہی نہیں گھر۔ (۱-مثل) شوہر گھر میں موجود نہیں جس کا ڈور
 ہوتا ہے تو ہو ہی کے لیے کھلی چھٹی مل جاتی ہے۔
 جس کارن ٹوڈ ٹنڈا یا وہی دکھ آگے آیا۔ (۱-مثل) جس تکلیف کو
 فور کرنے کے لیے ذلت آمیز کام کیا وہی ڈور نہ ہوتی۔
 جس کا کام اسی کو ساجے اور کرے تو ٹھیک لگا جائے۔ (۱-مثل) جو کام
 جانتا ہو وہی کر سکتا ہے۔ انا ڈیوں کے کرنے سے جگ ہنسائی کے
 سوا اور کچھ حاصل نہیں ہوتا۔
 جس کا کوئی نہیں اس کا خدا۔ (۱-مثل) غریبوں کا خدا دگار ہے۔
 جس کا کھانا، اس پر عرانا۔ (۱-مثل) جس سے فائدہ اٹھانا اسی پر

غصہ کرنا۔
 جس کا کھائے اُس کی واڑ وپاں دینا۔ (۱-مثل) اچھائی کے عوض
 بڑائی کرنا (دق)۔
 جس کا کھائے اُس کا گائیے۔ (۱-مثل) جس سے فائدہ پہنچے اُس کی
 نیچو راہی اور شکر گزاری کرنی چاہیے۔
 جس کا منہ نہیں دیکھا اُس کے تلوے دیکھے۔ (۱-مثل) جس سے
 نفرت تھی اسی کی خوشامد کرنی پڑی۔
 جس کا بار کو تو اُل اُس کو ڈور کاٹے کا۔ (۱-مثل) جس شخص کے افریں
 سے تسکات یا میل بول ہو اُسے کسی بات کا ڈور نہیں ہوتا۔
 جس کر کے۔ (۱-مثال فعل) جس کی وجہ سے۔ جس کے لیے۔
 جس کو پسا چاہے وہی سہاگن۔ (۱-محاورہ) (۱) جسے خداوند پسند
 کرتے اُسے ہی سہاگن سمجھنا چاہیے (۲) جسے حاکم لوگ پسند کرتے
 ہیں وہی مرے میں رہتا ہے۔
 جس کو راکھے سائیاں مار نہ سائے کوئے۔ بال نہ بیکار سیکے
 سب جگ بیری ہو جائے۔ (۱-مثل) جس کو خدا سلامت رکھے
 اُسے کوئی نہیں مار سکتا۔ جس کا اللہ نگہبان ہو اُسے کسی کی دشمنی
 نقصان نہیں پہنچا سکتی۔
 جس کی آنکھ نہیں اُس کی ساکھ نہیں۔ (۱-مثل) جس کی آنکھ میں
 موت نہیں اُس کا اعتبار نہیں کیا جاسکتا۔
 جس کی تیغ اُس کی دیگ۔ (۱-مثل) مال و دولت اور عیش و نشاط
 زبردستی کے لیے ہوتا ہے۔
 جس کی جوتی اُس کے سمر۔ (۱-مثل) جس کی چیز تھی اُس پر خرچ
 کر دی۔
 جس کی جو رو اندر اُس کا نصیب اسکندر۔ (مثل) جو عورت گھر
 گوہر سنن ہو اس کے گھر کا نصیب اچھا ہوتا ہے۔
 جس کی سیرت اچھی نہیں اُس کی صورت کا کیا دیکھنا۔ (مثل)
 و خوشا بڑے انسان سے کیا ملتا جلتا۔
 جس کی فکر اُس کا ذکر۔ (۱-مثل) جس شخص یا معاملے کا خیال لگا ہو
 انسان اسی کا بار بار ذکر کرتا رہتا ہے۔
 جس کی گوہ میں بیٹھنا اُس کی ڈاڑھی کھسوٹنا۔ (۱-مثل) جس سے
 فائدہ اٹھانا اسی کو نقصان پہنچانا۔
 جس کی لائھی اُس کی جھیس۔ (۱-مثل) جس کے پاس طاقت
 ہوتی ہے وہی تابن ہو جاتا ہے۔
 جس کی نہ پھی ہو بولائی وہ کیا جانے پیر پرائی۔ (۱-مثل) جس
 پر کبھی معمولی مصیبت بھی نہ پڑی ہو وہ دوسروں کی مصیبت اور
 تکلیف کا اندازہ نہیں کر سکتا۔
 جس کی یہاں چاہ اُس کی وہاں بھی چاہ۔ (۱-مثل) اچھوں کو جلد
 موت آجاتی ہے۔ خدا بھی اچھوں ہی کو چاہتا ہے۔
 جس کے پاس نہیں پسیا، وہ جھلا مٹس کبسیا۔ (۱-مثل) ساری

عزت مال و دولت سے ہے۔
 جس کے پیسا نہیں ہے پاس اُس کو میلہ لگا اُداس۔ (امثل)
 نانا دار آدمی کو کچھ اچھا نہیں لگتا۔
 جس کے پیشے میں بان وہ بڑا شیطان۔ (امثل) اکثر کٹریبان۔
 نیل بان وغیرہ شرارتی ہوتے ہیں۔
 جس کے چار بھینا۔ ماریں دھول چھین لیں رو پٹیا۔ (امثل)
 جس کے کچھ ساتھی ہوں وہ جو چاہے کرے۔
 جس کے دل میں کرم نہیں وہ فصالی ہے۔ (امثل) بے درد
 آدمی فصالی کے برابر ہوتا ہے۔
 جس کے دیکھے تب آوے وہی موہے بیاہن آوے۔
 (امثل) جس کو دیکھنے سے بخار چڑھ آتا ہے وہی مجھ بیاہنے آتا
 ہے۔ جس سے نفرت ہے اسی سے پالا پڑا ہے۔
 جس کے سر پر پڑتی ہے وہی جانتا ہے۔ (امثل) جس پر
 معیبت پڑتی ہے اسی کو اس کا نمازہ ہوتا ہے۔
 جس کے سر پر جو تار کھ دیا وہی بادشاہ بن گیا۔ (امثل) اپنی
 پامی اور کی تعریف میں سمجھتے ہیں کہ جس پر نظری وہی عروج عمل
 کر گیا۔
 جس کے کارن جو گن بھبی وہ سبیاں پر ولس۔ (امثل) (۱)
 جس سے محبت ہے اسے پرواہ نہیں جس کے لیے معیبت ٹھانی
 پڑا رہی ہے وہ دُور ہے۔
 جس کے گھر بھوج اُس کے بھات نہیں۔ (امثل) جب کوئی
 امیر آدمی غریب ہو جائے تو اس کو فخر پر یہ کہتے ہیں۔
 جس کے ماں باپ جیتے ہیں وہ حرانی نہیں کہلاتا۔ (امثل)
 (۱) جس کے پاس ثبوت ہوں اُس کی بات کیسے جھٹلائی جاسکتی
 ہے۔ (۲) ثبوت کے بغیر ارا نہیں لگانا چاہیے۔
 جس کے منہ میں چاول ہوتے ہیں وہ خوب چبا چبا کر باتیں
 کرتا ہے۔ (امثل) جس کے پاس دولت ہوتی ہے وہ اترا اترا کر
 باتیں کرتا ہے۔
 جس کے ہاتھ ڈوٹی اُس کا سب کوئی۔ (امثل) جس سے
 فائدے کی امید ہو لوگ اسی کا ساتھ دیتے ہیں۔
 جس گھر بوڑھا نہ بڑا وہ گھر ڈگم ڈگا۔ (امثل) جس گھر میں عمر رسیدہ
 پانچ بھرا کار آدمی نہیں ہوتا وہ تباہ ہو جاتا ہے۔
 جس گھر نامی چھوڑی۔ اوہ گھر حالو کوڑھی۔ جس گھر میں عورت
 چھو بڑ (بے سلیقہ) ہوگی وہ گندہ اور غلیظ رہے گا۔
 جس منہ سے پان کھائیے اُس منہ سے کوئلے نہ چپائیے۔
 (امثل) (۱) اپنی زبان سے جس کو ایک دفعہ اچھا کہہ دو اسے
 پھر نہ کہو۔ جس سے نیکی کہنے نہ ہو اس سے بدی نہ کرو۔
 جس میں چمک نہیں وہ بھیرا نہیں جس میں ڈمک نہیں
 وہ عورت نہیں۔ (امثل) کوئی چیز اپنی خوبیوں کے بغیر کچھ

نہیں ہوتی۔
 جس نے اپنی اُتار لی اُسے دوسروں کی اُتارنے کیا ڈر لگتا
 ہے۔ (امثل) شندے اور لچے انسان جنہوں نے اپنی اُتار کی پروا
 نہ کی وہ دوسرے کی عزت کو کیا سمجھتے ہیں۔
 جس نے بھونکنا سکھایا، اسی کو کاٹنے دوڑے۔ (امثل)
 اسان فراموش اور مسن کن آدمی پر یہ مثل کی جاتی ہے۔
 جس نے بیٹی دکی اُس نے رکھا کیا۔ (امثل) جب بیٹی بیاہ
 دی تو اس نے سب کچھ دے دیا عزیز سمجھی کے متعلق کہا
 جاتا ہے۔
 جس نے چیرا اُس نے نیرا (وہی نیرے گا)۔ (امثل) جس نے
 پیدا کیا ہے وہی کھانے کو بھی دے گا۔
 جس نے دیا اُس نے پایا۔ (امثل) جو خدا کے نام پر دیتا ہے اُسے
 اجر ملتا ہے۔
 جس نے زبڈی کو چاہا اُسے بھی زوال اور جس کو زبڈی نے
 چاہا اُس کی بھی تباہی۔ (امثل) فاحشہ عورتوں سے تعلق رکھنے
 والے ہر طرح نقصان میں رہتے ہیں۔
 جس نے کوڑا دیا وہ گھوڑا بھی دے گا۔ (امثل) جس خدانے نخواستہ
 دیا ہے وہ زیادہ بھی دے دے گا۔
 جس نے کی بے حیائی، اُس نے کھائی دودھ کلائی۔ جس
 نے کی شرم، اُس کے بھولے کرم۔ (امثل) بے حیاء انسان
 مزے میں رہتا ہے۔ جو شرم کرتا ہے وہ محروم رہ جاتا ہے۔ یہ مثل
 بے شرم آدمی پر طنز کے طور پر کہی جاتی ہے۔
 جس نے لگائی وہی بچھائے گا۔ (امثل) (۱) جس نے شرارت کی
 ہے وہی اس کا اثر دُور کر سکتا ہے۔ (۲) جو تکلیف خدانے دی ہے
 اسے وہی سنبھالے۔
 جس نے نہ دیکھا ہو شیر (باگھ) وہ دیکھے بلائی۔ جس نے نہ دیکھی
 ہو مہن وہ دیکھے بھائی۔ جس نے نہ دیکھا ہو جگم وہ دیکھے خنوائی۔
 (امثل) بٹی شیر کی ہم شکل ہوتی ہے۔ بہن بھائی جلیبی اور داساد
 دونوں کے دیوتا جیسا ہوتا ہے۔
 جس نے نہ دیکھی ہو گتیا، دیکھے گتیا کا بھائی۔ (امثل) اپنی
 منگیتر کی شکل و صورت کا نمازہ کرنا ہوتا اُس کے بھائی کو دیکھ لو۔
 (گمیریہ بات ہر جگہ درست نہیں ہوتی)
 جس ہانڈی میں کھائیں اسی میں چھید کریں۔ (امثل) جس سے
 فائدہ اٹھانا اسی کو نقصان پہنچانا۔
 جسے اللہ رکھے اُسے کون چھکے۔ (امثل) جس پر خدا مرمان ہو
 اُسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔
 جسے کھانے کو بیٹے یوں، وہ کھانے جائے کیوں۔ (امثل)
 بغیر مشقت بل رہی ہوتی مشقت کرنے کی کیا ضرورت۔
 جھارت۔ (ج۔ سا۔ رٹ) [ع۔ ۱۔ مٹ] [مراستی۔ ولیری۔

جشن (انگ) [Golden Jubilee] جشن سہیسیں - (ف. ۱- مذ) وہ جشن جو پچیس سال بعد منایا جائے۔
جشن (انگ) [Silver Jubilee] جشن کرنا۔ جشن منانا۔ جشن ہونا۔ (۱- محاورہ) عیش و نشاط میں مشغول ہونا۔ خوشی منانا۔ ناچ رنگ کی محفل رچانا۔

جرات۔ شجاعت۔ جواں مردی۔ بے باکی۔ دلادری۔ حوصلہ۔
جسامت۔ (ر.ج. ساء۔ مت) [ع. ۱- مٹ] (۱) جسم ہونا (۲) موٹاپا۔
فزہبی۔ (۳) عرض۔ طول۔ عمق (۴) ڈیل ٹول۔
جشرف۔ [ع. ۱- مذ] ایک وصاحت کا نام۔ چستا۔
جشرف۔ [ف. ۱- مؤنث] پھلانگ۔ پھانڈ۔ چوڑھی۔ گود پھانڈ۔
پھلانگ۔

ج - ع

جغذہ۔ (ع. ۱- مٹ) (۱) سر کے بالوں کی لٹ (۲) چوٹی۔ جھڑا (۳) جھنگریالے بال۔
ججہ شکیں۔ (ع. ۱- ف. ۱- مذ) گھونگرے لے سیاہ بال۔ سیاہ چوٹی۔
جعفری۔ (ر.ج. ف. ری) [ع. ۱- مٹ] (۱) ایک قسم کا گیندا۔ (۲) خالص سونا۔ (۳) گل اشرفی (۴) حضرت امام جعفر رضی اللہ عنہما سے منسوب۔ حضرت امام جعفر کی اولاد (۵) مجازاً زور و رنگ۔
ججیل۔ (ع. ۱- مذ) (۱) دھوکا۔ فریب۔ دغا۔ (۲) بناوٹ (۳) نقل چیز کو اصل ظاہر کرنا۔ جھوٹ۔ کھوٹ۔
ججیل بنانا۔ ججیل کرنا۔ (۱) محاورہ (۲) جھوٹی دستاویز تیار کرنا۔ (۳) جھوٹے دستخط یا نمونہ بنانا۔ (۴) کسی چیز کی نقل کرنا (۵) جھوٹا مقدمہ کھڑا کرنا۔
ججیل ساز۔ (ع. ۱- ف. ۱- صفت) (۱) دھوکے باز۔ دغا باز (۲) شرابی۔ بد معاش۔
ججیل سازی۔ (ع. ۱- ف. ۱- مٹ) دھوکہ بازی۔
ججیلی۔ (ر.ج. ل. ی) [ع. ۱- صفت] (۱) نقلی۔ مصنوعی (۲) جھوٹی۔
ججیلیا۔ (ر.ج. ل. ی) [ع. ۱- صفت] ججیل ساز۔ فریبی۔
ججیلی دست آوریز۔ (ع. ۱- صفت) جھوٹی دستاویز۔ جو ججیل سازی کے ذریعے بنائی گئی ہو۔

جست بھرنا۔ (۱) محاورہ) پھلانگ مارنا۔ چوڑھی بھرنا۔
جست وغیرہ۔ (ف. ۱- مٹ) جست کرنا۔ اچھلنا کوننا۔ قلاج مارنا۔
طراس بھرنا۔
جستجو۔ (جست۔ جو) [ف. ۱- مٹ] [ف. ۱- مٹ] ڈھونڈ ڈھانڈ۔ تلاش۔
جستجو۔
جستہ جستہ۔ (جس۔ جس۔ ش) [ف. ۱- صفت] کم۔ کم کہیں کہیں سے۔
جسٹس۔ (Justice) (جس۔ جس۔ ٹس) [انگ۔ ۱- مذ] عدالت عالیہ کا جج۔ (۲) انصاف۔ عدل۔
جسد۔ (ر.ج. ساء) [ع. ۱- مذ] بدن۔ تن۔ جسم۔ جمع۔ اجساد۔
جسم۔ [ع. ۱- مذ] بدن۔ تن۔ پنڈا۔ ڈیل۔ جمع۔ اجسام۔
جسمل کو آراستہ کرنا۔ (۱) محاورہ) بدن کی آرائش کرنا۔
جسمانی۔ (جس۔ ما۔ نی) [ع. ۱- صفت] (۱) جسم سے متعلق۔ بدنی (۲) مادی۔
جسمانی سزا۔ (۱) صفت) ایسی سزا جس کا اثر جسم پر پڑے۔
جسمانیت۔ (جس۔ ما۔ نی۔ بیت) [ع. ۱- مٹ] [ع. ۱- مٹ] جسم ہونے کی حالت۔ جسم پن۔ مادیت۔
جسہی۔ (جس۔ مہی) [ع. ۱- صفت] جسم کے متعلق۔ بدنی۔ جسمانی۔
جسور۔ (ع. ۱- صفت) بہادر۔ دلیر۔ جرات مند۔
جسیلا۔ (ر.ج. سے۔ لا) [ع. ۱- صفت] جس والا۔ نامور۔
جسیم۔ (ر.ج. سیم) [ع. ۱- صفت] [ع. ۱- صفت] جسم والا۔ موٹا۔ فربہ۔
جسیم۔

ج - ع

ج - ش

ججاوری۔ (ع. ۱- صفت) دیکھیے جگاوری۔
ججرات۔ (ر.ج. رات) [ف. ۱- مذ] وہی۔ دوع۔
ججراقیالی۔ (ر.ج. نا۔ ف. یا۔ ای) [ف. ۱- صفت] اجزافیہ سے متعلق۔
ججراقیہ۔ (ر.ج. را۔ ف. یہ) [یو۔ ۱- مذ] وہ علم جو سطح زمین، اُس کی آبادی، نباتات اور حیوانات اور طبی تقسیم کے حالات بتائے۔

جشن۔ (ف. ۱- مذ) (۱) خوشی کا جلسہ یا محفل یا دعوت (۲) خوشی کا دن۔ روز عید۔ (۳) مسرت و شادمانی (۴) لہر بہر (۵) تہوار۔
جشن اڑانا۔ (۱) محاورہ) مرے اڑانا۔ عیش کرنا۔ لطف اٹھانا۔
جشن لازم جشن اڑانا۔
جشن بزرگ۔ (ف. ۱- مذ) پارسیوں میں فروردین کے مینے کا چٹا دن (۲) نوروز کا دن۔
جشن طلانی۔ (ف. ۱- مذ) وہ جشن جو پچاس سال کے بعد ہو

ج - ف

جفنا - (ج - ف) [فت - ا - مش] [ظلم - زیادتی - تشدد - ناانصافی - جفنا پیشگی (جوئی - شعاری - کالہ کی - گشتری) (فت - ا - مش) (۱) وہ ہتھکنڈے جن سے ظلم زیادتی اور ناانصافی کی جاتے (۲) معشوق کی زیادتیاں -

جفنا پیشہ (جوئی - شععار - کار - گشتہ) (فت - صفت) (۱) ظالم - زیادتی کرنے والا - انصاف نہ کرنے والا - ستانے والا - (۲) معشوق -

جفنا چھیلنا - (۱) محاورہ) ظلم یا زیادتی برداشت کرنا -

جفنا طلب - (فت - ا - مذ) محنت مشقت پہننے والا - مشکل کام -

جفنا کش - (فت - صفت) (۱) محنتی جو کہ پاؤں پھیلنے کا عادی ہو - جو بے تکان محنت مشقت کرے (۲) سختیاں برداشت کرنے والا -

جفنا کفا - (فت - ا - مش) (ظلم و ستم - محنت و مصیبت - آفت و سختی - (۲) فاقہ نشی -

جفنا کفا اٹھانا - (۱) محاورہ) (۱) سختیاں پھیلنا (۲) مصیبتیں اٹھانا ظلم اور زیادتی اٹھانا -

جھفت - (فت - ا - مذ) (۱) دو چیزیں - جوڑا - جوڑ - طاق کی ضد - (۲) جوتوں کی جوڑی - جوتے - (۳) ہم سر - ہم پایہ - ثنائی (۴) وہ عدد جو دو پر پورا تقسیم ہو جائے - (۵) بھیرا دیونکہ دو ہوتے ہیں) -

جھفت ساز - (فت - صفت) (موجی - جوئے بنانے والا - جھفت سازی - (فت - ا - مش) (۱) جوئے بنانے کا پیشہ - (موجی کا کام - (۱) بھیرا بجانا -

جھفتہ - (جھفت - ث) [فت - صفت] جھکا ہوا - خمیدہ -

جھفتہ - (جھفت - ث) [فت - ا - مذ] (۱) شکن - سلوٹ - چرس - جھمکی (۲) داغ - دھبہ (۳) دراز - شگاف -

جھفتے پڑنا - (۱) محاورہ) خمیں پڑنا - سلوٹیں پڑنا (۲) وصلے ہونے کیلئے نام آرتار ہونا (۳) نام کو بٹا لگنا - سبکی ہونا (۴) باریک کپڑے کے وصلے میں چرسیں پڑ جانا -

جھفتی - (جھفت - ث) [فت - ا - مش] (۱) تراور مادہ کا بلنا (۲) دو فٹا جو درمیان سے دوہرا ہو جاتا ہے (مظالم عام - چھتی) -

جھفتی کرنا - جھفتی کھانا - (۱) محاورہ) تراور مادہ کا ایک دوسرے کو بلنا - جماع کرنا -

جھفر - (ج - ف) [فت - ا - مذ] (۱) ایک علم جس سے غیب کا حال بتایا جاتا ہے - حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی منسوب کیا جاتا ہے -

ج - ک

جج - (ج - ک) [فت - ا - مذ] [فت - صفت] -

جکڑ بند - (ج - ک) [فت - بند] [۵ - صفت] اکسا ہوا مضبوط بندھا ہوا - (۲) کھچا ہوا - تننا ہوا (۳) [۱ - مذ] گرفت - پکڑ - روک (۴) گھٹیا -

جکڑ بھانا - (ج - ک) [فت - ج - نا] [۵ - مص] (۱) اینٹھنا - اگر بھانا سخت ہو جانا - (۲) قریبی تعلق ہونا -

جکڑ نا - (ج - ک) [فت - نا] [۵ - مص] (۱) کس کرنا باندھنا مضبوط باندھنا - ہتھکڑی لگانا - مشکلیں باندھنا -

ج - گ

جگ - (ج - گ) [فت - ا - مش] (۱) دنیا - سنسار - عالم - جہان - (۲) مخلوق - لوگ - (۳) ہندوؤں کی ایک مذہبی رسم - ہوں - پوجا (۴) یگیہ - ضیافت -

جگ اچال - (۵ - صفت) دنیا کو روشن کرنے والا - عالم افزو -

جگ بیٹی - (۵ - ا - مش) (۱) دنیا جہان کی سرگزشت (۲) رملے کے حالات - فقہ - کہانی - دنیا کی سرگزشت -

جگ بیٹی کہوں یا آپ بیٹی - (۱) محاورہ) دوسروں کے حالات بیان کروں یا اپنے -

جگ جانی دیس بھانی - (۱) محاورہ) بہت مشہور -

جگ جیننا - (۱) محاورہ) دنیا کو فتح کر لینا - غالب آنا -

جگ درشن کا میلہ ہے - (۱) (مثل) (۱) یہ دنیا بس دیکھنے ہی میں خوبصورت معلوم ہوتی ہے (۲) ملتے جلتے رہنے سے ہی کام بنتے ہیں -

جگ نمی ماں جہان کی خالہ - (۱) (مثل) اس عورت کے بائے ہیں طنز کرتے ہیں جو گھر گھر پھرتی ہو اور لوگوں کی خورشاد کر کے کام نکالتی ہو -

جگ میں دیکھتے ہی کانٹا ہے - (۱) (مثل) (۱) دنیا میں میل جول سے تعلق بڑھتا ہے - (۲) دنیا میں ظاہر داری ہی ظاہر داری ہے -

جگ ہنسائی - (۵ - ا - مش) دنیا کا ہنسنا - عام رسوائی - ہدنامی -

جگ ہنسائی کرنا - جگ ہنسائی ہونا - (۱) محاورہ) کوئی ایسی حرکت سرزد ہونا جس پر لوگوں کو ہنسنے یا ذلیل و رسوا کرنے کا موقع مل جائے -

جگٹ - (Jug) [انگ - ا - مذ] قزاق - صراحی - پانی وغیرہ رکھنے کا دستہ والا برتن -

جگ - [۵ - ا - مذ] (۱) زمانہ - عہد - دور - قرن (۲) پڑھی - پڑت - مدت - (۳) ہمیشہ - (۴) چوسر کے کھیل میں دو کا ایک خانے میں لکھنے ہو جانا - (۵) وہ ڈورا جو گٹا یا کپڑا بننے والے تاروں کو ایک دوسرے سے جمدار رکھنے کے لیے تانے میں ڈالنے میں (۶) ہندوؤں کے خیال کے مطابق دنیا کے چاروں زمانوں میں

جگ - (۱) زمانہ - عہد - دور - قرن (۲) پڑھی - پڑت - مدت - (۳) ہمیشہ - (۴) چوسر کے کھیل میں دو کا ایک خانے میں لکھنے ہو جانا - (۵) وہ ڈورا جو گٹا یا کپڑا بننے والے تاروں کو ایک دوسرے سے جمدار رکھنے کے لیے تانے میں ڈالنے میں (۶) ہندوؤں کے خیال کے مطابق دنیا کے چاروں زمانوں میں

جگٹ - (Jug) [انگ - ا - مذ] قزاق - صراحی - پانی وغیرہ رکھنے کا دستہ والا برتن -

جگ - [۵ - ا - مذ] (۱) زمانہ - عہد - دور - قرن (۲) پڑھی - پڑت - مدت - (۳) ہمیشہ - (۴) چوسر کے کھیل میں دو کا ایک خانے میں لکھنے ہو جانا - (۵) وہ ڈورا جو گٹا یا کپڑا بننے والے تاروں کو ایک دوسرے سے جمدار رکھنے کے لیے تانے میں ڈالنے میں (۶) ہندوؤں کے خیال کے مطابق دنیا کے چاروں زمانوں میں

جگٹ - (Jug) [انگ - ا - مذ] قزاق - صراحی - پانی وغیرہ رکھنے کا دستہ والا برتن -

جگ - [۵ - ا - مذ] (۱) زمانہ - عہد - دور - قرن (۲) پڑھی - پڑت - مدت - (۳) ہمیشہ - (۴) چوسر کے کھیل میں دو کا ایک خانے میں لکھنے ہو جانا - (۵) وہ ڈورا جو گٹا یا کپڑا بننے والے تاروں کو ایک دوسرے سے جمدار رکھنے کے لیے تانے میں ڈالنے میں (۶) ہندوؤں کے خیال کے مطابق دنیا کے چاروں زمانوں میں

جگٹ - (Jug) [انگ - ا - مذ] قزاق - صراحی - پانی وغیرہ رکھنے کا دستہ والا برتن -

جگر پارہ - (دفعہ ۱- مذ) کیلچے کا ٹکڑا (۲) بیٹا - فرزند۔
 جگر پائش پاش ہونا - (مجاورہ) کیلچے کے ٹکڑے اڑھانا۔ عم کی شدت ہونا۔
 جگر پانا - (مجاورہ) حوصلہ ہونا۔ بہت ہونا۔
 جگر پانی ہونا - (مجاورہ) ۱) خوف زدہ ہونا (۲) ہمت ٹوٹنا۔ دیکھیے جگر آب ہونا۔
 جگر پر ہتھیار رکھ لینا - (مجاورہ) ۱) صبر کر لینا (۲) جذبات ظاہر نہ کرنا۔ ضبط کرنا۔
 جگر پر چھریاں چلانا - (مجاورہ) ۱) انتہائی اذیت پہنچانا (۲) بہت بے چین ہونا۔
 جگر پر ہاتھ رکھنا - (مجاورہ) بے قراری کی حالت میں کیلچے چھامنا۔
 جگر کپکپ جانا - (مجاورہ) ۱) بروا شدت کی حد ہو جانا۔ بار بار کے صدموں سے توتہ بروا شدت پانی نہ بہنا۔
 جگر کھینٹنا - (مجاورہ) ۱) صدمے سے دل کے ٹکڑے ہونا۔ بچیدار رنج و ملال ہونا۔
 جگر کھینکنا - (مجاورہ) دل جھٹا۔ رنج کرنا۔
 جگر کھینٹنا - (مجاورہ) رنج کرنا۔
 جگر کتاب - (دفعہ ۱- صفت) کیلچہ گرم کرنے والا (۲) عزیز معشوق یا اولاد۔
 جگر تشنہ - (دفعہ ۱- صفت) بہت پیاسا۔
 جگر لگنے - (دفعہ ۱- صفت) جس کا کیلچہ تھل چکا ہو (۲) جو عشق میں گرفتار ہو (۳) غمگین۔ رنجیدہ۔
 جگر تھام کے بیٹھ جانا - (مجاورہ) صدمہ ہونے کے بعد دل کو پکڑ کر بیٹھ جانا۔
 جگر تھام کے بیٹھنا - (مجاورہ) کوئی ایسی بات یا واقعہ سننے کے لیے خود پر تاقاب پانا جو بہت زیادہ رنج دینے یا صدمہ پہنچانے والی ہو۔
 جگر ٹکڑے ٹکڑے ٹکڑے ہونا - (مجاورہ) ۱) رنج یا صدمے سے دل ٹوٹنا۔ (۲) دل پر کسی تیز چیز کا اثر ہونا (۳) کوئی بات بہت بڑی لگنا۔
 جگر دگر دگر - (مجاورہ) اپنا اپنا ہی ہے۔ غیر بھیر غیر ہونا۔
 جگر جھلنا - (مجاورہ) ۱) غصہ آنا (۲) ملین ہونا (۳) افسوس یا ملال ہونا۔
 جگر چاک - (دفعہ ۱- صفت) جس کا دل کسی صدمے سے ٹوٹ چکا ہو۔
 جگر چاک ہونا - (مجاورہ) دلی اذیت پہنچانا۔ سخت صدمہ پہنچانا۔
 جگر تراش - (دفعہ ۱- صفت) کیلچہ چھیلنے والا۔ بہت زیادہ افسوسناک نہایت رنج و ہ۔

جگر خوار - (۱) جو جگر کھائے۔ غمناک (۲) جا دوگر۔ جا دو ٹوٹا کرنے والا۔
 جو جگر نکال لے۔ ڈرائی۔ بھلا۔
 جگر خون کر دینا - (مجاورہ) روحانی یا دلی صدمہ پہنچانا۔
 جگر خون ہونا - (مجاورہ) سخت ترین قلبی صدمہ ہونا۔
 جگر دو ٹکڑے (دو نیم) ہونا - (مجاورہ) دل پر اذیت تک صدمہ پہنچانا۔
 جگر دوڑ - (دفعہ ۱- صفت) کیلچہ چھیلنے کرنے والا۔ دل پر سخت اثر کرنے والا۔
 جگر دہل جانا (دھلنا) - (مجاورہ) ۱) ڈرنا۔ خوف کھانا۔ (۲) گھبرا کر اٹھنا۔
 جگر دیکھنا - (مجاورہ) حوصلہ دیکھنا۔
 جگر رکھنا - (مجاورہ) حوصلہ رکھنا۔
 جگر سوختی - (دفعہ ۱- مرث) دل جلا پڑنا۔
 جگر سوختہ - (دفعہ ۱- صفت) جس کا دل جلا ہوا ہو۔ دل بجلا۔
 جگر سوز - (دفعہ ۱- صفت) اپنا دل جلانے والا۔ عم کار۔ دل سوز (۲) رنج دینے والا (۳) دل جھٹا۔ جسے رنج یا صدمہ پہنچا ہو۔
 جگر سوزی - (دفعہ ۱- مرث) کیلچہ جلانا۔ جھردی۔
 جگر سے دھواں اٹھنا - (مجاورہ) ۱) بے حد صدمہ ہونا (۲) غمگین ہونا۔
 جگر شوق ہونا - (مجاورہ) ۱) رنج یا خوف کی شدت سے کیلچہ پھٹ جانا (۲) سخت صدمہ پہنچانا۔
 جگر کاٹنا - (مجاورہ) کوئی ایسی چیز (جیسے پسا ہوا شیشہ یا ہیرے کی کئی) کھلا دینا جس سے جگر کٹ جائے۔
 جگر کاٹنا - (مجاورہ) خوف طاری ہو جانا۔ ڈر جانا۔
 جگر کاوی - (دفعہ ۱- صفت) ۱) سخت الجھن (۲) محنت۔ مشقت۔ جانفشانی۔
 جگر کباب ہونا - (مجاورہ) ۱) دل تھل جانا (۲) کسی ناپسندیدہ بات پر بہت زیادہ غصہ آنا۔ (۳) صدمہ کی وجہ سے پیچ و تاب کھانا۔
 جگر کرنا - (مجاورہ) ۱) حوصلہ کرنا (۲) مقابلے کے لیے اٹھ کھڑے ہونا۔
 جگر کو بیٹھنا - (مجاورہ) آہ و زاری کرنا۔
 جگر کو دیکھنا - (مجاورہ) دلیری اور حوصلے کی داد دینا۔
 جگر کھوڑنا - (مجاورہ) ۱) سخت الجھن ہونا۔ پریشانی کی حالت میں ہونا۔
 جگر کی چوڑ - (مجاورہ) ۱) زبردست صدمہ (۲) اولاد کا جگر غمگین پار ہونا۔ (مجاورہ) ۱) جگر پر زخم لگنا (۲) کسی بات سے دل ٹوٹ جانا۔
 جگر کے ٹکڑے ٹکڑے ہونا - (مجاورہ) رنج و ملال سے دل

ٹوٹ جانا۔
جگر گوشہ - (فت۔ ا۔ مذ) جگر کا گوشت یعنی فرزند۔ بیٹا (۲) عزیز قریب۔
جگر لہو کرنا - (مجاورہ) (۱) شدید صدمہ پہنچانا۔ (۲) ہمت توڑ دینا۔
حوصلہ نپست کرنا۔
جگر لہو ہونا - (مجاورہ) انتہائی صدمے سے طاقت برداشت کا جواب دے دینا۔
جگر موسس لینا - (مجاورہ) صدمہ اٹھاتے وقت بے بس ہونا۔
جگر منہ کو آنا - (مجاورہ) ناقابل برداشت صدمہ ہونا۔ سخت دکھ ہونا۔
جگر میں چٹکیاں لینا - (مجاورہ) اندھی اندر تکلیف دینا۔ در پردہ ایذا دینا۔
جگر ناسور ہونا - (مجاورہ) ناقابل فراموش صدمہ پہنچانا۔
جگر ہل جانا - (مجاورہ) خوف یا صدمے سے دل پر گہرا اثر پڑنا۔
جگر ہونا - (مجاورہ) حوصلہ ہونا۔ ولولہ پایا جانا۔
جگر - (جگٹ۔ لا) [ج۔ ا۔ مذ] ہمت۔ حوصلہ۔ جرات۔ دلیری۔ دل۔
گدہ - کلیجیا۔
جگر بجکر کرنا - (ج۔ گ۔ ب۔ ج۔ گ۔ کرنا) [م۔ ص] اتنا زیادہ چکنا کہ دیکھنے والوں کی آنکھیں چند ہی لمحوں میں لگیں۔
جگر مری - (جگٹ۔ ری) [فت۔ صفت] (۱) جگر سے تعلق رکھنے والا۔ (۲) اندرونی (۳) دلی - سچا (۴) رشتہ دار۔ دوست (۵) مری مال سیاہ رنگ۔ داغ۔
جگر مری داغ - [فت۔ ا۔ مذ] (۱) لالچ مصیبت یا صدمہ (۲) مستقل دلی صدمہ (۳) گوہر یا وصفت کا عیب (۴) قدرتی داغ دھبہ۔
جگر مری دوست - دلی دوست۔ سچا دوست۔ ہمراز۔ گہرا یار۔
جگر مری آڑے پر آڑے آتا ہے - (مثل) مصیبت کے وقت اپنے ہی مدد کوکتے ہیں۔
جگمگل - (ج۔ گ۔ گل) [صفت] دو۔ جوڑا۔ جُفت۔
جگمگ - [ص۔ ا۔ مذ] [مشت] آنکھیں چونہ ہیانے والی روشنی جگمگ۔
جگمگ - جگمگ - جگمگ کرنا۔ بہت تیز روشنی دینا۔ چکنا۔ دکننا۔
جگمگانا - (جگٹ۔ م۔ گ۔ نا) [ص۔ م] روشن کرنا۔ چمکانا۔ روشن ہونا۔
جگمگ مگمگ ہرٹ - (جگٹ۔ م۔ گ۔ ہرٹ) [مشت] (۱) چمک مک۔
آب و تاب۔ آبداری (۲) رونق۔ تیز روشنی۔
جگمگانا - (جگٹ۔ نا) [فت۔ ا۔ مذ] جگمگو۔
جگمگ نامتھ - (ج۔ گم۔ نا) [فت۔ ا۔ مذ] (۱) دنیا کا مالک (۲) کرشن جی اور دشمن جی کا ایک نام۔
جگمگو - (جگٹ۔ نو) [م۔ ا۔ مذ] ایک اڑنے والا کیرا جس کے جسم سے رات کے وقت روشنی نکلتی ہے۔
جگمگو، بے کے گھر میں چہلے۔ (مثل) چھوٹی حیثیت کے آدمی

جگمگنی - (جگٹ۔ نی) [ص۔ ا۔ مذ] (۱) مٹ [۱] گلے کا ایک زیور (۲) پنجابی زبان کا ایک مشہور گیت۔
جگمگ - (ج۔ گ۔ گ۔ گ) [ص۔ ا۔ مذ] (۱) مٹ [۱] ٹھکانہ۔ مقام۔ موقع۔ (۲) گنجائش۔ وسعت۔ سہافی (۳) خدمت۔ عمدہ۔ نوکری (۴) علاقہ (۵) بجائے نیش۔ مانند (۶) موزوں اور مناسب موقع (۷) بدن کا کوئی حصہ (۸) شہر۔ قصبہ۔ گاؤں۔ مکان۔ جھوپڑی - (۹) نشست گاہ۔
جگمگ بنانا - (مجاورہ) (۱) گنجائش نکالنا۔ (۲) اپنے لیے موقع پیدا کرنا۔ (۳) مکان بنانا۔
جگمگ بھرنے جانا - (مجاورہ) (۱) گنجائش نہ رہنا (۲) خالی اسامی یا ملازمت پر کسی کا مقرر ہو جانا۔
جگمگ جگمگ - (۱) ہر جگہ۔ جہاں تمنا۔ جہاں جا۔
جگمگ درو کرنا - (مجاورہ) بدن کے ہر حصے میں درد و سہنا۔
جگمگ دل میں ہونا - (مجاورہ) محبت ہونا۔ قدر ہونا۔
جگمگ جگمگ ہونا - (مجاورہ) ہر جگہ ہونا۔ کثرت سے ہونا۔
جگمگ چھوڑنا - (مجاورہ) (۱) مقام چھوڑنا (۲) کھٹے کھٹے کاغذ میں خالی جگہ چھوڑ دینا (۳) ہٹنا۔ ہرکنا (۴) نوکری یا علاقہ چھوڑنا۔
جگمگ خالی کرنا - (مجاورہ) (۱) کسی کا کسی جگہ سے اٹھ کر چلے جانا۔ (۲) ملازمت چھوڑ دینا۔
جگمگ دلانا - (مجاورہ) (۱) نوکری دلانا (۲) سہنے کے لیے زمین دلوانا۔
جگمگ دینا - (مجاورہ) (۱) ٹھیرانا بھنانا۔ (۲) عمدہ یا ملازمت دینا۔ (۳) سہنے کو مکان دینا۔
جگمگ رکنا - (۱) گنجائش نہ رہنا (۲) خالی ملازمت پر کسی اور کا تقرر ہو جانا۔
جگمگ رو کرنا - (مجاورہ) (۱) خالی جگہ پر بیٹھ جانا (۲) خالی جگہ پر کسی اور کو نہ بیٹھنے دینا۔
جگمگ سہرا جینا - (مجاورہ) موقع سے خرچ کرنا۔
جگمگ سہرا (سے) ہونا - (مجاورہ) صحیح مقام یا موقع پر ہونا مناسب جگہ ہونا۔
جگمگ ملنا - (مجاورہ) نوکری ملنا۔ ملازمت ملنا۔
جگمگ ہونا - (مجاورہ) گنجائش ہونا۔ موقع ہونا۔
جگمگ - (جگٹ۔ ہر) [ص۔ ا۔ مذ] (۱) بیماری۔ جاگ (۲) بیماری یا تشویش کی وجہ سے جاگنا۔
جگمگ جگمگ - (ج۔ گ۔ ج۔ گی) [فت۔ ا۔ مذ] [ص۔ ا۔ مذ] کلمہ ہجرت کلمہ مسرت۔ اظہارِ عجز۔ ہائے ہائے۔ واہ۔ واہ۔ ارے۔ ارے۔

ج - ل

جبل - (س - ۱ - مذ) پانی - آب [صفت] سردی (۲) اوچھل [ق] [جبل بانگ - (۱-۵- مذ) فن سپنگری، جس میں گہرے پانی کے اندر دفن پر قابو پانا ہوتا ہے۔

جبل پان - (۱) ناشتہ - حقوڑا سا کھانا پینا۔
جبل پان کرنا - (۱-۵- مذ) (۱) حقوڑا سا کھانا - ناشتہ کرنا۔
جبل پریمی - ایک روایتی یا خیالی مخلوق جس کا چہرہ عورت جیسا اور باقی جسم مچھل کا سا ہوتا ہے۔
جبل چھٹی - پانی پر اڑنے والے پرندے جو مچھلیاں کھا کر گزارہ کرتے ہیں - آبی پرندے۔
جبل ترنگ - جبل ترنگی - (۱) ایک باجا - دھات یا پلین کے پیالوں میں پانی بھر کر انہیں تیلیوں سے بجاتے ہیں (۲) پانی کی موج یا لہر۔
جبل تری - جبل توری - (۱-۵- مش) ایک قسم کی مچھل۔
جبل تھل - (۱-۵- مذ) وہ زمین جس پر بہت سا پانی ہو (۲) دلدل (۳) پانی کی چادر (۴) کوئی ایسی جگہ جہاں پانی بھرا ہوا ہو۔
جبل تھل (ایک ہونا) بھڑنا (۱- محاورہ) اتنا زیادہ مینہ برسا کہ ہر طرف پانی ہی پانی دکھائی دینا - بارش کی کثرت سے زمین کا غرقاب ہو جانا - ہر جگہ پانی ہی پانی ہونا۔
جبل جوگنی - (۱-۵- مش) (۱) چونک (۲) چیل (۳) وہ عورت جو بدمرا ہو (ان معنوں میں یہ ترکیب لفظ چھلنا سے بنتی ہے)۔
جبل چہرہ - پانی پر چلنے والے جانور یا حیوانات۔
جبلکا - (۱-۵- مش) چونک۔
جبل کاک - جبل کاگ (۱) آبی کوآ (۲) ماہی گیر - غوطہ خور۔
جبل کر - (۱-۵- مذ) (۱) وہ محصول یا ٹیکس جو مچھل پکڑنے والوں پر لگایا جلتے (۲) دیہات کے تالابوں اور جوہڑوں وغیرہ میں لگنے والے درختوں یا کنول کے پھولوں کا لگان۔
جبل ککو - (۱) پانی کا پرندہ - مُرغابی (۲) بات بات پر غصے ہونے والا۔
جبل کوآ - پانی کا کوآ - ایسا کوآ جو دریاؤں اور سمندروں پر ہی دیکھا جاتا ہے۔
جبل کی مچھلی - جبل کی مچھلی - [مثل] شخص کا گزارہ اپنی ہی قوم میں ہو سکتا ہے - ہر چیز اپنی جگہ پر یا اپنے ماحول ہی میں اچھی معلوم ہوتی ہے۔
جبل مانگش - (۱) پانی کا آدمی - مرد آبی - (۲) ایک قسم کا بندر۔
جبل میں کھڑی پسیا سول مے - (مثل) ایسے شخص پر کسی جاتی ہے جس کو فائدہ اٹھانے کے تمام ذرائع میسر ہوں مگر فائدہ نہ اٹھائے۔
جبل اٹھنا - (۱- محاورہ) یکایک چلنے لگانا۔

جبل بھین کر بیٹھ رہنا - (۱- محاورہ) ناامید ہو کر غصے میں بیٹھا رہنا۔
جبل جاننا - (۱- محاورہ) آگ لگ جانا - ناراض ہونا - حسد کرنا۔
جبل کر راکھ (خاک) ہونا - (۱- محاورہ) سخت ناراض ہونا۔
جبل کر کیاب ہونا - (۱- محاورہ) ناراض رہنا - بہت ناخوش رہنا۔
جبل گھیا - (۱- صفت) بے نصیب - بد قسمت۔
جبل - (جبل - ل) (ع - صفت) بڑا - عظیم - بزرگ۔
جبل توجلال تو (صاحب کمال تو) آئی بلا کو مال تو - [مثل] خدا سے دعا کہ بلاؤں سے محفوظ رکھے - یہ ایسے موقع پر دربان ہوتی ہے جب کوئی ایسی آفت آپڑے جسے مانا انسانی کو قش سے بچنا ناممکن ہو۔
جبل جلالہ - (ع - صفت) اس خدا کی عظمت اور شان بڑی ہے۔
جبل شانہ - (ع - صفت) دیکھیے جبل جلالہ۔
جبل وعلی - (ع - صفت) خدا کے بزرگ و بزر۔
جبل - (۱-۵- مذ) (۱) دھوکہ - دغا - فریب - کر - چال بازی - دورخی بات - جھانسا - دم - چھل - بتنا - جھانسا۔
جبل باز - (۵- ف - صفت) دھوکہ دینے والا - فریبی - دغا باز۔
جبل دینا - (۱- محاورہ) فریب دینا - دھوکہ دینا - جھانسا دینا - بتنا۔
جبل کھیلنا - (۱- محاورہ) دھوکے میں ڈالنا - فریب کا شکار بنانا - ٹھگنا۔
جبل میں آنا - (۱- محاورہ) فریب کھانا - دھوکہ کھانا - جھانسنے میں آنا۔
جبل - (ع - ۱- موقش) [۱] گھوڑے یا کسی جانور کا کبیل (۲) جھول۔
جھلا - (ج - لا) [۵- صفت] (۱) جلا ہوا (۲) تنگ آیا ہوا (۳) غصے کی حالت میں۔
جھلا جھلا جھنسا (۱- صفت) غصے میں بھرا ہوا - ناراض - خلاف توقع بات یا واقعہ ہونے کے بعد تعجب یا عجبنا یا ہوا۔
جھلا تین (چلے تین) [۱- صفت] (۱) بدمزاج - غصیل - جو بہ بات پر غصے میں آجائے (۲) جس کا مزاج صدوں یا مایوسیوں کی وجہ سے چوڑھا ہو گیا ہو - (۳) عاصد - چلنے والا (۴) اوروں سے بیزار۔
جھلا کر مارنا - (۱- محاورہ) (۱) غم دے دے کر جان کھلانا (۲) غصتہ دلا دلا کر مار ڈالنا (۳) بہت زیادہ ستانا - اذیت دینا کرنا۔
جھلا دینا - (۱- محاورہ) (۱) آگ لگانا یا سلگانا (۲) غصتہ دلا نا (۳) پھینکانا۔
جھلا کر مارنا - (۲) چراغ روشن کرنا (۵) رنج دینا۔
جھلا کر خاک کرنا - (۱) اتنا زیادہ جھلانا کہ چیز بالکل خاک ہو جائے (۲) تباہ کر دینا - برباد کر دینا - (۳) غصتہ دلا کر یا بیچ کتاب کھانے پر مجبور کر ڈالنا۔
جھلے پاؤں کی بلی - (۱- مش) وہ عورت جسے جگہ جگہ پھرنے کی عادت ہو۔
جھلے پر نون چھڑکنا - جھلے پر نون (نمک) لگانا - (۱- محاورہ)۔

تکلیف پہنچے ہوئے آدمی کو چڑا کر اور زیادہ تکلیف پہنچانا۔
 جلے پھوپھو لے پھوڑنا۔ (۱- محاورہ) (۱) شکوے شکایت سے دل کا غبا
 نکالنا (۲) بدلہ لینا۔ عداوت نکالنا۔ دلی بغض یا عتا و ظاہر کرنا۔
 جلے جھوٹے سے جو مکملے سو واہ۔ (۱) رش، نقصان ہونے میں جو
 بھی کچھ بچ جائے اُسے عنایت جانو۔
 جہلا۔ (ج-لا) [ع-۱-مٹھ] (۱) صفائی۔ روشنی۔ چمک۔ صیتقل۔
 جہلا دینا۔ جہلا کرنا۔ (۱- محاورہ) چمکانا۔ اچھلانا۔ صیتقل کرنا۔ سانجھنا۔
 جہلا کار۔ چمکانے والا۔ اچھلنے والا۔ صیتقل کر۔
 جہلا کاری۔ (ع-۱-مٹھ) زیورات یا برتنوں کو چمکانے کا پیشہ۔ صیتقل
 گری تہا۔
 جہلاب۔ (جہل-لاب) [ع-۱-مٹھ] ایسی دوائی جس سے دست نہیں
 مسلسل دست آور دوا۔
 جہلاب سالک جمانا۔ (۱- محاورہ) خوف یا نشوونما سے دست
 چھوٹ جانا۔
 جہلاب لینا۔ مسل لینا۔ دستوں کی دوائی استعمال کرنا۔
 جہلابی۔ (جہل-لابی) [ع-۱-مٹھ] جہلاب لینے والا۔ مسل لینے والا۔
 جہلابی۔ (ج-لا-بی) [ع-۱-مٹھ] ایک مٹھائی کا نام جلیبی۔
 جہلابا۔ (ج-لا-پا) [ع-۱-مٹھ] (۱) راج۔ غم۔ طال۔ آرزوگی۔ سوگ
 (۲) رشک۔ حسد (سوگن سے) جہن (۳) آئیر۔ دشمنی (۴) کسی کی
 ترقی یا کامیابی پر بیچ ڈناب۔
 جہلا پے سخور۔ (۱-مٹھ) حسد کرنے والا۔
 جہلاط۔ (ج-لاط) [ع-۱-مٹھ] جلن۔
 جہلا مین۔ (Gelatin) [ع-۱-مٹھ] (۱) مین [انگ-۱-مٹھ] ایک
 ایس دار مادہ جو جانوروں کی ہڈی، کھال وغیرہ سے نکلتا ہے۔
 سریش ماہی۔
 جہلا جہل۔ (ج-لا-جہل) [ع-۱-مٹھ] جہل جہل کی سمج (۱) جھانچہ۔ دت۔
 دائرہ۔ میجرہ۔ مال۔
 جہلا و۔ (جہل-لاو) [ع-۱-مٹھ] کھال اُدھیرنے والا۔ پھانسی دینے والا۔
 جان لینے والا (۲) بے رحم۔ بے درو۔ ظالم۔ کھٹور۔
 جہلا و صفت۔ (ع-۱-مٹھ) بے رحم۔ سنگ دل۔
 جہلا و فلک۔ (ع-۱-مٹھ) (۱) ستارہ مرتج۔ منگل جس سے
 نجومیوں کے نزدیک قتل و خون اور جنگ و جدل کا تعلق ہے۔
 جہلا و دت۔ (ج-لا-دت) [ع-۱-مٹھ] (۱) بہادری۔ شجاعت۔
 جوانمردی۔ چستی۔ چالاکی۔ پھرتی۔ طاقت۔ توت۔ زور۔ بل۔
 جہلا وئی۔ (جہل-لا-وئی) [ع-۱-مٹھ] ایسی عورت جو بہت ہی
 بے رحم اور سنگ دل ہو۔
 جہلا وئی۔ (جہل-لا-وئی) [ع-۱-مٹھ] (۱) بے رحمی۔ سنگ دلی۔
 جہلال۔ (ج-لال) [ع-۱-مٹھ] (۱) بزرگی۔ عظمت۔ بڑائی (۲) شان
 شوکت (۳) رعب و اب (۴) طاقت۔ قوت (۵) غصت۔

طیش (۶) تیزی۔ تندہی۔ جوش۔
 جہلال آجانا۔ جہلال آنا۔ (۱- محاورہ) غصہ آجانا۔ طیش آجانا (۲)
 جوش آجانا۔
 جہلال برسننا۔ (۱) دہرہ یا رعب ظاہر ہونا۔ (۲) طیش یا غصہ ٹپکنا۔
 جہلاکت۔ (ج-لا-کت) [ع-۱-مٹھ] (۱) بزرگی۔ عظمت۔ بڑائی
 (۲) شان و شوکت (۳) امتیاز (۴) دہرہ (۵) جوش۔
 جہلا لی۔ (ج-لا-لی) [ع-۱-مٹھ] (۱) صفائی۔ صفت آقاری کی صفت (۲) درویشوں
 کا ایک سلسلہ جو سید جہلال الدین بخاری سے شروع ہوا (۳) تمام
 شمسی مینوں کا نام (۴) جہلال الدین ملک شاہ بلجونی کے عہد سے
 شروع ہوتا ہے (۵) [صفت] صاحب جہلال۔ جہلال والا۔ (۵)
 خوتناک۔ غضبناک۔ ہیبتناک (۶) وہ دغا یا نقش یا نقویذ یا
 عمل جس سے خدا کی شان تماری ظاہر ہونے کی خواہش ہو۔
 جہلا میری۔ (جہل-لا-می) [ع-۱-مٹھ] (۱) بچوں کا ایک کھیل جسے
 آڈان جہلا بھی کہتے ہیں۔
 جہلاننا۔ (ج-لا-نا) [ع-۱-مٹھ] (۱) لگانا۔ سدگانا۔ آگ دینا۔ دھمکانا۔
 مگانا۔ چراغ روشن کرنا۔ (۲) غصہ دلانا۔ جوش میں لانا۔ آگ بگولا
 کرنا۔ برما کی تختہ کرنا (۳) حسد یا دشمنی کا جذبہ پیدا کرنا (۴) دق کرنا۔
 تنگ کرنا۔ ستانا۔
 جہلاننا۔ (ج-لا-نا) [ع-۱-مٹھ] (۱) زندہ کرنا۔ جان ڈالنا (۲) تازگی
 بخشنا (۳) موت سے بچانا (۴) دھات کا کشتہ کر کے اسے اصلی
 حالت پر لے آنا۔
 جہلا۔ (ع-۱-مٹھ) (۱) دیس نکالا۔ وطن یا گھر سے باہر نکال دینا۔
 جہلا وطن۔ (ج-لا-وطن) [ع-۱-مٹھ] (۱) جہلا وطن سے نکلا یا
 نکالا ہوا۔
 جہلا وطنی۔ (ج-لا-وطن) [ع-۱-مٹھ] (۱) دیس نکالا۔
 ملک چھوڑنا۔
 جہلا ہا۔ (ج-لا-ہا) [ع-۱-مٹھ] (۱) بزرگی۔ پاک و ہند کی ایک مسلمان
 قوم جو کپڑا بننے کا کام کرتی ہے (۲) کپڑا بننے والا۔ پارچہ بانٹ۔
 باقندہ۔
 جہلا بہن۔ جہلا ہی۔ (ج-لا-بہن) [ع-۱-مٹھ] (۱) عورت۔
 جہلا سے کی بیوی (۲) جہلا بہن قوم کی عورت۔
 جہلا سے کا پٹھان بیگاری۔ (۱-مٹھ) (۱) جب کوئی چھوٹا آدمی بڑے
 آدمی کو کام کرنے کے لیے کہے تو اس وقت کہتے ہیں ایسا کبھی
 نہیں ہو سکتا۔
 جہلا سے کی مسخری مال بہن سے۔ (۱-مٹھ) (۱) بھلاؤ آدمی ہی بزرگوں کے
 ساتھ مسخری کرتا ہے۔ کوئی بے وقوفی کی یا ناتر یا بات کہے
 تو کہتے ہیں۔
 جہلا و۔ (ج-لا-و) [ع-۱-مٹھ] (۱) جہلا وطنی کے قابل اچھا ایندھن (۲)
 چڑچڑا۔ تنگ مزاج (۳) جلد نارض ہو جانے والا

شخص جسے ہتھرس کی عادت ہو۔
جل ملنا - (۱) اپنے کپڑوں میں آگ لگا کر خود کو کھینا (۲) رشک یا سد سے بل کھانا۔
جلن - (ج - ل) [ج - ۱ - مرث] (۱) جلنے کی حالت۔ سوزش۔ (۲) گرمی حدت (۳) غصہ۔ (۴) رنج و غم (۵) کینہ۔ عداوت۔
جلن پڑنا - (۱) محاورہ سوزش ہونا۔ آگ سی لگی ہونا۔ مریں سی لگنا۔
جلنا - (ج - ل) [ج - ۱ - مرث] (۱) آگ لگنا۔ (۲) آگ لگنا (۳) جھنسا، داغ لگنا۔ جھنسا (۴) لاکھ ہونا (۵) سوزش یا جلن ہونا۔ تپکنا (۶) پودوں وغیرہ کا پالے سے مرجانا یا سوکھ جانا۔ (۷) رشک یا سد کرنا (۸) ناراض ہونا جسے ہونا (۹) رنج اٹھانا۔ دل شکستہ ہونا۔ غم میں گھٹنا (۱۰) مریج یا کسی اور تیز چیز سے زبان کو تکلیف ہونا۔ جھجھلانا (۱۱) روشن ہونا (۱۲) مشتعل ہونا۔
جلنا پٹنا - جل جلا کر خاک ہو جانا۔ جلنا۔ کرکھنا۔
جلنا جھنسا - بوجھ و تاب کھانا۔ آذر وہ ہونا۔ ناراض ہونا۔
جلنا - (ج - ل) [ج - ۱ - مرث] (۱) جلنے کے ساتھ بطور تابع مہمل استعمال کیا جاتا ہے جیسے ملنا جھنسا (ملقات کرنا)
جلندرو - جلندھر - (ج - ل) [ج - ۱ - مرث] (۱) دھڑ۔ (۲) دھڑ۔ (۳) دھڑ۔ (۴) دھڑ۔ (۵) دھڑ۔ (۶) دھڑ۔ (۷) دھڑ۔ (۸) دھڑ۔ (۹) دھڑ۔ (۱۰) دھڑ۔ (۱۱) دھڑ۔ (۱۲) دھڑ۔
جلو - (ج - ل) [ج - ۱ - مرث] (۱) باگ۔ (۲) گلام (۳) کوتل گھوڑا۔ وہ خالی گھوڑا سواری کے ساتھ صرف زینت کے لیے سجا کر لیے جاتے ہیں (۴) زینت۔ ططراق۔ ماہی مراتب۔ شان و شوکت۔ بیکل۔
جلوب خانہ - (ج - ل) [ج - ۱ - مرث] (۱) آن بان (۲) ہم رکابی۔ رعیت۔
جلو دروازے - (ج - ل) [ج - ۱ - مرث] (۱) پورچ۔ ڈیوڑھی (۲) وہ میدان جو صدر دروازے کے سامنے ہو۔ جہاں سے شاہی جلوس ترتیب دیا جائے۔
جلو وار - (ج - ل) [ج - ۱ - مرث] (۱) وہ شخص جو گھوڑے کی باگ پکڑ کر چلے۔ (۲) مصاحب۔ بہاری۔ ہمنشین۔ (۳) کچھو کچھو۔ خادم۔ حاضر باش۔
جلو پیر - (ج - ل) [ج - ۱ - مرث] (۱) تیز۔ سر پٹ۔ جو ڈھیلی باگ، ہلکی باگ یا سبک عنان کے ساتھ گھوڑا دوڑاتے ہوئے جو (۲) [مرث] [جلدی تیز چلتی۔
جلوت - (ج - ل) [ج - ۱ - مرث] (۱) باہر۔ عام جگہ۔ سب کے سامنے (۲) مجمع۔ پھیڑ (۳) اپنے آپ کو دکھانا۔ ظاہر کرنا۔
جلوس - (ج - ل) [ج - ۱ - مرث] (۱) بہت سے لوگوں کا کسی خاص موقع پر اکٹھے ہو کر بازاروں سے گزرنے والا (۲) بادشاہوں یا امیروں کی سواری رکھنا (۳) تخت نشینی (۴) ساز و سامان۔ کر و فر۔ تزک اعظام۔ (۵) بیٹھنا۔ نشست۔
جلوس - (ج - ل) [ج - ۱ - مرث] (۱) شاہی تخت نشینی سے نسبت رکھنے والا۔ (۲) ساتوں جلوس (۳) وہ ملازم لوگ جو شاہی جلوس کے ساتھ

جلوہ - (ج - ل) [ج - ۱ - مرث] (۱) نور کو دوسروں کو دکھانا۔ کسی خاص انداز سے سامنے آنا۔ نمودار ہونا۔ نظارہ کرنا (۲) زینت۔ نوری رونق (۳) معشوق کا ازاد انداز سے چلنا (۴) ڈولنا ڈولنے کا آنے سامنے بیٹھ کر آئینے میں ایک دوسرے کی صورت دیکھنا۔
جلوہ آرا ہونا۔ جلوہ افروز ہونا۔ جلوہ دکھانا۔ جلوہ فرما ہونا۔ جلوہ گر ہونا۔ جلوہ نما ہونا۔ (۱) محاورہ (۲) خاص بناؤ سنگھار یا سج و سج کے ساتھ سامنے آنا۔ (۳) اپنے کو کسی خاص انداز سے دکھانے کے لیے منظر عام پر نمودار ہونا۔
جلوہ آرائی - (ج - ل) [ج - ۱ - مرث] (۱) جلوہ آرا ہونے کی حالت یا کیفیت۔
جلوہ دکھانا - (ج - ل) [ج - ۱ - مرث] (۱) جلوہ دکھانا۔ سج و سج دکھانا۔ نظر آنا۔
جلوہ طور - (ج - ل) [ج - ۱ - مرث] (۱) اللہ تعالیٰ کی تجلی جو حضرت موسیٰ ؑ نے کو طور پر دیکھی تھی۔
جلوہ کشاں - (ج - ل) [ج - ۱ - مرث] (۱) جلوہ دکھا رہا ہو (۲) ظاہر نمایاں۔ نورانی۔ سنور۔
جلوہ گاہ - (ج - ل) [ج - ۱ - مرث] (۱) وہ جگہ جہاں جلوہ دکھایا جائے یا دیکھا جائے (۲) تماشا گاہ (۳) جگہ غرضی۔
جلوہ گرمی۔ جلوہ تمانی۔ (ج - ل) [ج - ۱ - مرث] (۱) نمودار۔ اظہار (۲) شان و شوکت (۳) نماز نحرے (۴) ظاہر ہونے کی حالت یا کیفیت (۵) اپنے آپ کو دکھانا۔
جللی - (ج - ل) [ج - ۱ - مرث] (۱) روشن۔ واضح۔ بظاہر (۲) موٹا لکھا ہوا۔
جللی قلو - (ج - ل) [ج - ۱ - مرث] (۱) موٹا قلم۔ موٹی نوک یا چوڑے قلم والا قلم۔
جللیا - (ج - ل) [ج - ۱ - مرث] (۱) پھیلا۔ ماہی گیر۔
جللیبا - (ج - ل) [ج - ۱ - مرث] (۱) توت۔ شہوت (۲) بڑی چلبلی۔
جللیبی - (ج - ل) [ج - ۱ - مرث] (۱) ایک مشہور مٹھائی۔
جللیبری - (ج - ل) [ج - ۱ - مرث] (۱) لوہا ٹھنڈا کرنے کی ٹانڈ جو لوہاروں کے پاس ہوتی ہے۔
جللیس - (ج - ل) [ج - ۱ - مرث] (۱) ساتھی۔ رفیق۔ ساتھ آٹھنے بیٹھنے والا۔ ہم نشین۔ مصاحب۔
جللی کٹی - (ج - ل) [ج - ۱ - مرث] (۱) [ج - ۱ - مرث] (۱) طعن و تشنیع۔ ایسی گفتگو جس سے عداوت اور دشمنی ٹپکے۔
جللی کٹی باتیں - (ج - ل) [ج - ۱ - مرث] (۱) ایسی باتیں جن سے حسد کی بو آئے۔ دشمنی کی باتیں۔ غصے کی باتیں (۲) طعن و تشنیع۔ طنز۔
جللی کٹی پڑانا۔ جللی کٹی کرنا۔ جللی کٹی کشانا۔ (۱) محاورہ (۲) برا بھلا کرنا۔ طعنہ دینا (۳) دشمنی اور عداوت ظاہر کرنا (۴) برائیاں کرنا۔ جللی کٹی رکھنا۔ (۱) محاورہ (۲) دشمنی رکھنا۔ عداوت رکھنا۔ ان بڑھکھنا۔ یا عداوت رکھنا۔
جللی کٹی ہونا۔ آپس میں لوگ جھونک ہونا۔ ایک دوسرے کو طعنہ دینا۔
جللیلی - (ج - ل) [ج - ۱ - مرث] (۱) بڑا۔ بزرگ۔ اعلیٰ۔ افضل (۲) عدائے تنہائی کا ایک صفائی نام۔

جلیل القدر - (ع - صفت) بڑی شان والا - نہایت معتز۔
 جلیبیلہ - (رج - لی - کہ) - (ع - ۱ - مرث) [۱] جلیبیل کا موش (۲) [صفت] بڑا۔
 بزرگ - اونچا۔

ج - م

جگم - (ع - ۱ - مذ) ایران کے ایک قدیم بادشاہ جشید کا صفت۔
 جگم جاہ - (ع - صفت) جشید بادشاہ کے مرتبے کا بڑا معنی بڑے مرتبے والا۔
 جگم - (ع - ۱ - مذ) موت کا فرشتہ - ملک الموت (۲) موت [فضا] ناگوار
 بات یا چیز (۳) جڑواں - توام (۵) جتنا کامر۔
 جگم جونیالی ہو کر بیٹھنا - (۱ - محاورہ) چمٹ جانا - بغیر لیے نہ ملنا۔
 جگم ووت - (۱ - مذ) ملک الموت - موت کا فرشتہ۔
 جگم دھڑ - جگم (موت) اور دھڑ (دھار) کام کہ (۱) دھار یا بارہ دار تھیوار
 پھیری - کٹار - پنجر (۲) ایک قسم کا رنگین کنگوا - ایک قسم کا بادامی کاغذ۔
 جگم ویا - (۱ - مذ) جگم ویا کے نام کا چراغ جو دیوالی سے دو دن پہلے جلا یا
 جاتا ہے۔
 جگم لاج - (ع - ۱ - مذ) پاتالی کا راجہ۔
 جگم کاشد لیبہ - (ع - ۱ - مذ) موت کا پیمانہ۔
 جگم ہو جانا - (۱ - محاورہ) موت کی طرح نہ ملنا - پھینا چھوڑنا - جھوٹ کی
 طرح چمٹ جانا۔
 جگماد - (ع - ۱ - مذ) جس چیز میں بڑھنے کی قوت نہ ہو۔ بے
 جان چیز (۲) پنجر - معدنی۔
 جمادات - (ع - ۱ - مذ) جمادات کی جمع - بے جان چیزیں۔
 جیسے وحیات - پنجر پہاڑ وغیرہ۔
 جمادی الآخرۃ - جمادی الآخری - (ع - ۱ - مذ) فل - آ - ع - ر - ع - ج - ما -
 دل - ا - ع - (۱ - مذ) اسلامی سال کا چھٹا مہینہ
 جمادی الاولیٰ - (ع - ۱ - مذ) فل - ا - ع - (۱ - مذ) اسلامی سال
 کا پہلا مہینہ۔
 جمار - (ع - ۱ - مذ) وہ سنگ رینے جو حاجی لوگ حج کے مناسک
 ادا کرتے وقت پھینکتے ہیں۔
 جماع - (ع - ۱ - مذ) مرد و عورت سے صحبت کرنا - ہم بستہ
 ہونا - مباشرت - مجامعت۔
 جماعت - (ع - ۱ - مذ) (ع - ۱ - مرث) [۱] پارٹی - گروہ - جنٹا۔
 ٹولی - تنظیم (۲) سوسائٹی - سبھا - مجلس (۳) سلسلہ - زمرہ - پراد (۴) فرقہ۔
 فریق (۵) اکلاس (۶) صفت ناز (۷) جگم - بھیر - انہوہ۔
 جماعت سے کراہت ہے - (ع - ۱ - مذ) اتفاق میں برکت ہے۔
 (۲) جتنے فریق زیادہ ہوں اتنا ہی زیادہ رعب رہتا ہے۔
 جماعت کھڑی ہو جانا - ہونا - (۱ - محاورہ) نمازیوں کا امام کے پیچھے

صفت یا مذکر نماز شروع کر دینا
 جماعت میں بیٹھنا - (۱ - محاورہ) اسکول میں تعلیم پانے والے بچوں کا
 درجے میں بیٹھ کر پڑھنا۔
 جمگئی - جمعگی - (ع - ۱ - مذ) - (ع - ۱ - مذ) [۱] ا - مرث [۱] بچوں کا جمعہ
 کے دن کا خرچ - (۲) استاد کا نذرانہ جو بچے جمعہ کو ادا کرتے تھے۔
 جمال - (ع - ۱ - مذ) [ع - ۱ - مذ] حسن - جوہن - روپ - خوبصورتی۔
 جمال گوٹا - (ع - ۱ - مذ) [ع - ۱ - مذ] ایک گرم اور خشک پہل
 جو درست اور ہوتا ہے۔
 جمالی - (ع - ۱ - مذ) [ع - ۱ - مذ] شان رحمت کی نقلی (۲) وہ اسم جو
 جلالی نہ ہو۔ (۳) ایک قسم کا سرد یا خوبروزہ (۴) عالموں اور صوفیوں
 کی اصطلاح میں نباتات جیسے سبزی وغیرہ جمع - جمالیات۔
 جمالیات - (ع - ۱ - مذ) فلسفہ کی وہ شاخ جس میں حسن اور اس کے
 لوازم سے بحث کی جاتی ہے (۲) حسن شناسی (۳) فنون لطیفہ۔
 (انگ) (Aesthetics)
 جمانا - (ع - ۱ - مذ) [ع - ۱ - مذ] مانع یا تباہی چیز کو ٹھوس کرنا - منجمد کرنا۔
 (۲) پیوست کرنا - جوڑنا (۳) ڈھنگ سے رکھنا یا لگانا (۴) قائم
 کرنا (۵) دھرنا - رکھنا (۶) اکٹھا کرنا (۷) انبار کرنا (۸) شروع کرنا
 (۹) بنیاد مضبوط کرنا۔ (۱۰) ٹھکانا (۱۱) مارنا (۱۲) گاڑنا (۱۳) شروع پیل
 کرنا (۱۴) رد کرنا (۱۵) آمادہ کرنا (۱۶) فرض نشین کرنا (۱۷) مشتق کرنا
 (۱۸) ہونٹوں پر ہستی لگانا۔
 جمانا - (ع - ۱ - مذ) [ع - ۱ - مذ] صیافت کرنا۔
 جما ہوا - (۱ - محاورہ) بستہ - منجمد (۲) کھڑا ہوا - غیر متحرک۔
 جماؤٹ - (ع - ۱ - مذ) [ع - ۱ - مذ] انجماد (۲) ہستی کا جمنا۔
 جماہٹا - (ع - ۱ - مذ) [ع - ۱ - مذ] جمائی لینا۔
 جماہٹی - جمائی - (ع - ۱ - مذ) [ع - ۱ - مذ] جمائی لینا۔
 جمہ میں ذرا تباہی آکر منہ کا کھل جانا۔
 جماؤ - (ع - ۱ - مذ) [ع - ۱ - مذ] جھٹنے کی خاصیت - جھٹنے کی حالت یا
 کیفیت انجماد (۲) ٹھیراؤ - قیام (۳) بھیر - جگم (۴) پختگی - پکنے
 پر آنے کی حالت (۵) لیس - چسپ۔
 جماؤ - (ع - ۱ - مذ) [ع - ۱ - مذ] جھٹنے کے قابل (۲) مضبوط - پکا۔
 پختہ - پانڈار۔
 جمبو - (ع - ۱ - مذ) [ع - ۱ - مذ] جاسن کا درخت (۲) جاسن
 کا پھل (۳) [ع - ۱ - مذ] گیدڑ - بڑا۔
 جمبوری - (ع - ۱ - مذ) [ع - ۱ - مذ] (جم - بو - ری) [انگ - ۱ - مرث] [۱]
 جشن - رنگ ریلیاں۔
 جم بیٹھنا - (ع - ۱ - مذ) [ع - ۱ - مذ] ایک قسم کا نیو یا میوں۔
 جم بھیری - (ع - ۱ - مذ) [ع - ۱ - مذ] ایک قسم کا نیو یا میوں۔
 جھڑپ - (ع - ۱ - مذ) [ع - ۱ - مذ] ایک قسم کا نیو یا میوں۔
 جمپر - (E - ۱ - مذ) [ع - ۱ - مذ] ایک قسم کا نیو یا میوں۔

کسی ایسے شخص کو غفلت سے جگانا ہو جو کسی عیار آدمی کے ہاتھوں لٹ کر اپنی ساری پونجی گنوا بیٹھا ہو۔
جمع لگے سرکاری اور مرزا کھیلیں بھاگ۔ (دیش) کوئی شخص بددیانتی کر کے یا اوروں کے سرمائے پر رعیش کر رہا ہو تو اس کے بارے میں یہ مشل کہتے ہیں۔
جمع مرکب۔ (ع۔ ا۔ مٹ) (۱) رقموں کی جمع۔ اوزان۔ پیمائش کی جمع۔

جمع والا۔ (ع۔ ا۔ مٹ) دولت مند۔ امیر جس کے پاس دولت ہو۔ بلاتر دار۔

جمع ہونا۔ (۱) معاورہ (۲) الطینان ہونا۔ (۳) دیکھو جمع کرنا۔
جمعہ دار۔ (ج۔ مٹ۔ وار) (۱) مٹ (۲) مزووروں (گروہ) سے کام لینے والا (۳) ایک فوجی عہدہ (۴) پولیس کا ہیڈ کوارٹریٹس، آب کاری کے محکمے کا کانسٹیبل (۵) ہمشٹی۔ ماشکی (۶) بھنگی یا خاکروب اور ان کا

معاون افسر۔
جمعہ داری۔ (ج۔ مٹ۔ وار۔ ری) (۱) مٹ (۲) جمع دار کا کام (۳) جمعہ داری کا عہدہ۔

جمعہ رات۔ (ج۔ مٹ۔ رات) (۱) مٹ (۲) جمعہ سے ایک دن پہلے کا روز۔ پختہ۔

جمعہ آئی بیٹہ۔ (ج۔ مٹ۔ ری۔ تی۔ سی۔ یڈ) (۱) مٹ (۲) وہ شخص جو جمعہ کو پیدا ہونے کے سبب اپنے آپ کو سید کہے۔

جمعہ وار۔ (ج۔ مٹ۔ وار) (۱) مٹ (۲) جمعہ رات کے بعد کا دن۔ یوم اذینہ شکر وار (۳) جمعے کی نماز۔ اردو میں م ساکن۔

جمعہ جمعہ آٹھ دن (روز) کی پیدائش۔ (دیش) اس موقع پر کہتے ہیں جب کوئی چھوٹی عمر کا چالاکی یا گستاخی کرے۔

جمعہ چھوڑ بیٹھ نہ لگے۔ اس کا سینچر کبھی نہ جائے۔ (دیش) جو آدمی جمعہ کے مبارک دن کے ہمارے ہفتے (سینچر) کے روز نہ لگے اس پر سے نحوست یا بد بختی (سینچر) کا پورا کبھی نہیں ملتا۔

جمعہ کو نکاح۔ ہفتے کو طلاق۔ (دیش) اس وقت بولتے ہیں جب کوئی کام شروع ہونے کے بعد بہت جلد جھگڑا یا فساد ہو جائے۔

جمعہ چیت۔ (ج۔ مٹ۔ جی۔ بیت) (ع۔ ا۔ مٹ) (۱) جماعت۔ مجمع۔ گروہ۔ انبوه۔ (۲) فوج۔ لشکر۔ سپاہ (۳) اکٹھا ہونا (۴) الطینان۔ لنگین۔

جمعیت اکٹھا کرنا۔ (۱) معاورہ (۲) لشکر جمع کرنا (۳) بہت سے آدمیوں کو اپنے ساتھ ملانا (۴) لوگوں کو جمع کر لینا۔

جمعیت خاطر۔ (ع۔ ف۔ ا۔ مٹ) نسلی۔ تشریحی۔ الطینان ول۔ بے ٹنگری۔ دل جمعی۔

جمعہ عقیقہ۔ (ج۔ م۔ ج۔ ع۔ فیہ) (ع۔ ا۔ مٹ) زبردست هجوم۔ بڑی بھاری جگمگ کر لڑنا۔ (ج۔ م۔ کر۔ لڑ۔ نا) (۱) مٹ (۲) لڑائی میں قدم پیچھے نہ ہٹانا۔

جمعہ گھٹ۔ (ج۔ م۔ گھٹ۔ ج۔ م۔ گھٹ) (ع۔ ا۔ مٹ) (۱) انبوه۔ جرم۔

دھالی کُرتی (۲) کراچی کی ڈیسی دھالی کُرتی جو تاج پہنتے ہیں۔
جگمگ جگانا۔ (۱) مٹ (۲) دیر کا دینا۔

جگمگ گن۔ (ع۔ مٹ) (۱) سدا۔ ہمیشہ۔ لگاتار۔ نرت (مٹ) (۲) خدا مبارک کرے (۳) خدا ایسا ہی کرے۔ خدا کرے روز ایسا ہوتا رہے۔

جگمگ گن۔ (Gymkhana)۔ (ج۔ م۔ غا۔ نہ) (۱) گنگ۔ (۲) مٹ (۳) لگھیل اور تفریح کی جگہ۔ گیند خانہ۔ گلب۔

جگمگ۔ (ج۔ م۔ ر۔ ع۔ ا۔ مٹ) (۱) جگمگ کے دوران میں کنکری مارنا (۲) آگ کی چنگاری۔ (۳) آتشک۔ جمع۔ جگمگ۔

جگمگ۔ (ج۔ م۔ شید) (ف۔ ا۔ مٹ) ایران کا ایک مشہور بادشاہ۔ کہتے ہیں کہ اس نے ایک ایسا پیالہ (جام جم) بنوایا تھا جس میں ساری دنیا کے حالات نظر آتے تھے۔

جمع۔ (ع۔ ا۔ مٹ) (۱) گل۔ تمام۔ اکٹھا۔ سب۔ سارا۔ جگمگ (۲) میزان۔ چند رقموں کا مجموعہ (۳) اکلم واحد کی جمع (۴) گروہ۔ جماعت۔ (۵) [جمع] اصل سرمایہ۔ پونجی۔ مال۔ نقدی۔ جما جگمگ (۶) لگت۔ خرچہ (۷) معمولات۔ پیداوار۔ آمدنی (۸) مالگداری (۹) حساب کتاب کے رجیٹر کا وہ صفحہ جس میں آمدنی کی رقم درج کی جاتی ہے (۱۰) ریاضی کے تین بنیادی قاعدوں جمع۔ تفریق تقسیم میں سے ایک قاعدہ۔

جمع۔ (۱) ڈھیر۔ (۲) انبار (۳) گودام۔ (۴) عزانہ (۵) شاعری کی ایک صنف جس سے شاعر ہم وصف چیزوں کو بجا جمع کر دے۔

جمع الجمع۔ (ع۔ ا۔ مٹ) کسی لفظ کی فہری جمع جیسے رقم کی جمع رقم اور رقم کی جمع رقومات۔

جمع بندی۔ (۱) لگان کا حساب کتاب۔ فرو لگان (۲) زمین کی آمدنی یا پیداوار (۳) سرکاری مال گذاری (۴) مال گذاری کا بندوبست۔

تقسیم جمع۔ نکاسی (۵) تخمینہ مال گذاری یا لگان۔

جمع بندی کرنا۔ زمین کی پیداوار یا آمدنی کی سرکاری طور پر تخمینہ کرنا۔

جمع بھرنا۔ (۱) مٹ (۲) مال گذاری کی رقم سرکاری خزانے میں داخل کرنا۔

جمع خرچ۔ (ع۔ ا۔ مٹ) (۱) آمدنی اور اخراجات (۲) آمد و خرچ کا حساب کتاب۔

جمع صدر۔ (۱) مٹ (۲) وہ مال گذاری جو مالکان سرکار سے براہ راست مقرر کریں۔

جمع صدقین۔ (ع۔ ا۔ مٹ) دو ایسی چیزوں کا ایک جمع جو جانا جو ایک دوسرے کی بند ہوں۔

جمع کرنا۔ جمع ہونا۔ (مٹ۔ مرکب) (۱) جوڑنا۔ سمیٹنا۔ اکٹھا کرنا۔ ڈھیر کرنا۔ اکٹھا کرنا (۲) فریو کرنا۔ بھرتی کرنا (۳) رقم جوڑنا۔ میزان کرنا۔

(۴) فرو حساب میں وصولی دینا۔ جمع کرنا۔ یہی پرچہ خانہ (۵) لگان کی رقم سرکاری خزانے میں داخل کرنا (۶) سپرد کرنا۔ حملے کرنا۔ تجویز میں دینا۔

جمع کل۔ (ع۔ ا۔ مٹ) نام۔ ساری۔

جمع کے ڈبو آنکھیں کھولو۔ (دیش) ایسے موقع پر بولتے ہیں جب

کثیر جمع - بہت بڑا جہوم - بھیڑ بھڑا اذو حام۔
 (۲) ہندوؤں کے تنوار دیوالی کی آخری رات (۳) دیوالی کی رات
 کو جوار یوں کا جہوم۔
 جہل - (ج-ن) (ج-ن) [ع-۱-۱] مذ [ا] ایچ کے عددوں کا
 حساب - حساب جہل (ج-ن) [ع-۱-۱] مذ [ا] ایچ کے عددوں کا
 حساب - حساب ایچ۔
 جھمکی - (ج-ن) (گی) [فت-۱-۱] مٹ [ا] تمامیت - عمومیست - پورا کا پورا
 ہونے کی حالت [صفت] سب - کل - تمام - مجموع۔
 جھمکے - (ج-ن) (نہ) [ع-صفت-۱-۱] مذ [ا] تمام - سب - کل (۲) ٹھکوں
 کا مجموعہ - فقرہ جو مطلب ادا کرے - جملہ کی مشورہ تفسیریں - جملہ امیر۔
 جملہ انسانیہ - جملہ خیر - جملہ شرطیہ - صفتیہ - فعلیہ - جملہ مشائخہ۔
 معترضہ - معطوفہ معلقہ۔

جس میں عوام کے چنے ہوئے نمائندوں کی حکومت ہو۔
 جمہوریت - (ج-م-ج-ن) (ری-نیت) [ع-۱-۱] مٹ [ا] وہ نظام حکومت جس
 میں عوام کے چنے ہوئے نمائندوں کی اکثریت رکھنے والی سیاسی
 جماعت حکومت چلاتی ہے اور عوام کے سامنے جواب دہ ہوتی ہے۔
 (انگ) (Democracy)
 جمہوریہ - (ع-صفت) جمہوری حکومت (انگ) (Republik)
 جہم ہی جہم - جہمی جہم - (ہ-صفت) [ا] ہنات سے - کثرت سے (۲) نہیں
 کچھ نہیں (۳) مگر جا - خدا رکھے (۴) ناگفتہ بہ۔
 جمع - (ج-بیع) [ع-صفت] سب - تمام - کل۔
 جمیل - (ج-میل) [ع-صفت] حسین خوبصورت - سندر تشکیل۔
 جہیل - (ج-بی-نہ) [ع-صفت] اجیل کا مٹ - خوبصورت حسین۔
 سندر عورت - اچھی صورت والی۔

ج - ن

جملہ معترضہ (۱) وہ نائز فقرہ یا بات جسے ہٹا دینے سے مطلب میں
 کوئی فرق نہ آئے۔ ابھی بات پوری نہ ہوئی ہو کہ دوسرا جملہ دریا
 میں بول دیا جائے اور وہ جملہ ایسا ہو کہ نہ بولیں تو بھی کلام میں خلل
 نہ پڑے۔
 جمن - (ج-ن) [ع-۱-۱] مذ [ا] وہ ترشی جس سے وہی جھمکتے ہیں۔
 جمننا - (ج-ن) [ع-مض] [ا] سیال چیز کا سوس بن جانا - منہ ہونا - بسنت
 ہونا - (۲) قائم ہونا یا ٹھہرنا (۳) چپکنا - چسپاں ہونا (۴) جگہ پکڑ
 لینا (۵) مضبوط ہونا - جڑ پکڑنا (۶) اٹل ہونا - ڈٹنا - اڑنا - ایک
 ہی جگہ کھڑا ہونا - (۷) قائم ہونا - ٹھہرنا (۸) ٹھیک آنا (۹) تر نشین
 ہونا (۱۰) لگنا - پڑنا (۱۱) زمین نشین ہونا (۱۲) دل پراثر ہونا (۱۳) مشت
 ہونا - (۱۴) رواں ہونا (۱۵) انہو رہنا - اذو حام رہنا (۱۶) یقین ہو جانا
 (۱۷) (۱-۱) مٹ (جمن وستان کا ایک مشورہ ور یا۔
 جمنناٹیک - (Gymnastic) - (ج-ن) [ع-۱-۱] مذ [ا] ایچ -
 مذ [ا] ورزش - ورزشی کتب - ورزش سے متعلق۔
 جمننازیہ - (Gymnasium) - (ج-ن) [ع-۱-۱] مذ [ا] -
 جمنوٹ - (ج-موٹ) [ع-۱-۱] مذ [ا] کنزیر کی بنیاد و (۲) کنزیر
 کی بنیاد رکھنے کی رسم۔
 جمنو - (ج-ن) [ع-مض] [ا] جمن جانا (۲) کام رک جانا - تعطل - جبری
 التوا۔

جن - (ج-ن) [ع-۱-۱] مذ [ا] جس کی جمع (۲) واحد کے لیے بطور تعظیم استعمال ہوتا ہے
 جن پائیں سہی نہیں، انہیں دیت ج راج! کچھ دیتے بکھاتے
 صاحب گریب لواج - (مثل) جن کے پاؤں میں جوتی نہیں ہوتی
 انہیں خدا بھی دیتا ہے اور جن انسانوں کو زہر دیا جاتا ہے انہیں
 دولت اور خوشت مل جاتی ہے۔ خدا جسے چاہے دے۔
 جن جانی انہیں لجانی - (مثل) جن سے پیدا ہوئی ان کو شرمندہ
 کیا۔ ایسی لڑکی کے لیے کہتے ہیں جو ماں باپ کو رسو کرے۔
 جن ڈھونڈا کن پایا - (امحاورہ) جس نے محنت کی اسے کامیابی
 حاصل ہوئی۔
 جن کا بیڑا کن کھینچا - (امحاورہ) جن کا کٹم تبدیل بڑا ہو گا ان ہی کا
 لوگوں پر رعب ہوگا۔
 جن کو چاؤ دلاؤ گھینترے ان کو دکھ بہتیرے - (مثل) جو لاڈ پیار
 سے پالے جاتے ہیں ان کو بہت ریا کو تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں۔
 جن کے بھاگ ان کے سہاگ - (۱) وہی عورتیں سہاگن رہ کر رخصت
 آرام سے بسر کرتی ہیں جن کا مقدر اچھا ہو (۲) امام خوش نصیبوں ہی
 کو ملا کرتا ہے۔

جھوک وار - (ج-موگ) [ع-۱-۱] مذ [ا] قرقی کا بیادہ۔
 جھوگا - (ج-مو-گا) [ع-۱-۱] مذ [ا] مرگ (۲) بچوں کی ایک بیماری۔
 جھمور - (ج-مور) [ع-۱-۱] مذ [ا] پبلک - عوام - آدمیوں کا بہت
 بڑا گروہ - باشندگان ملک (۲) بہت کا ڈھیر۔
 جمہوری - (ج-مور) [ع-صفت] جمہور کی - جس کا تعلق جمہور سے
 ہو۔
 جمہوری ریاست - جمہوری حکومت - (ع-۱-۱) مٹ [ا] وہ ملک

جن گلیوں میں پھول کھیرے۔ ان میں دھول کیا کھیروں۔
 (مثل) جن لوگوں سے دوستی اور مروت ہوتی ہے اب ان سے
 لڑنے جھگڑنے کو جی نہیں چاہتا۔
 جن مولوں آئی ان مولوں گئی - (مثل) محنت یا چوری یا لوٹ کا
 مال چوری ہوتا ہے یا لٹ جاتا ہے تو کتنے ہیں۔ محنت کا مال خفا
 ہونہی گیا۔
 جن - (ج-ن) [ع-۱-۱] مذ [ا] ایک پوشیدہ مطلق جو مسلمانوں کے عقیدے کے

عورت کے پریش سے باہر نکالنا۔ دائی یا جنوائی کا کام کرنا۔

جنباور - (ج۔ نا۔ ور) [ژہ۔ مذ] جانور۔ حیوان۔
جنوائی - (ج۔ نا۔ ای) [ژہ۔ ا۔ مرث] (۱) بچہ جنائے کی ابھرت (۲) بچہ جنائے والی۔ دائی یا فائلہ وغیرہ۔

جنجیب - (ج۔ ا۔ مرث) پہلو۔ پسلی۔ طرف (۲) ملک کا ایک حصہ۔
جنجرت - (ج۔ ا۔ مذ) وہ آدمی جسے جماع یا اختلام کی وجہ سے غسل کی حاجت ہو۔

جنجبال - (ج۔ باں) [ژت۔ صفت] اُٹتا ہوا۔ لرزاں۔
جنجیش - (ج۔ جم۔ بزش) [ژت۔ ا۔ مرث] حرکت۔ گردش۔ ہلنا۔ جھلنا۔
جنجلہ - (ج۔ جم۔ بزم) [ژت۔ ا۔ مذ] (۱) حمایت۔ طرفداری۔ پناہ۔ (۲) طرف۔ پہلو۔

جنجیہ داری - (ج۔ ا۔ مرث) طرفداری۔ حمایت۔ کشتی لینا۔
جنجنت - (ج۔ جن۔ ننت) [ژت۔ ا۔ مرث] (۱) باغ (۲) ہرشت۔ سورگ۔
جننت آشیانی - جننت مکانی - (ج۔ ا۔ صفت) جس کو جننت میں بگڑ دی گئی۔ مرحوم۔

جننت الممقار - (ج۔ ا۔ مرث) نیالی جننت۔ قیاسی نعوشی۔
(انگ) (Foots Paradise) [آحقول کی جننت۔

جننت الماوائے - (ج۔ ا۔ مرث) آرام کا باغ۔ ہرشت۔
جننت شداد - وہ جننت جو بابل کے بادشاہ شداد نے بنوائی تھی۔
جننت عدنان - (ج۔ ا۔ مرث) وہ باغ جننت جس میں حضرت آدم علیہ السلام کو شجر ممنوعہ کا پھل کھانے سے پہلے رکھا گیا تھا۔
جننت کی کھڑکی کھلانا - (ج۔ ا۔ مرث) شندھی ہوائے کھولنے آنا۔
جننت کی ہوا آنا - (ج۔ ا۔ مرث) شندھی خوشگوار ہوا آنا۔
جننت نشان - (ج۔ ا۔ مرث) (۱) آجمنائی (۲) مرحوم (۳) جننت جیسا دلکش۔

جننت - (ج۔ ا۔ مرث) گروہ۔ بہت سے آدمی۔ جمع۔ بھیڑ (۲) فرقہ۔ (۳) قوم۔ (۴) انسان۔

جننتی - (ج۔ ن۔ تی) [ژر۔ صفت] جننت سے منسوب (۱) جننت میں جانے والا (۲) مرحوم (۳) سیدھا۔ بھولا (۴) بہرا۔
جننتیہ - (ج۔ ن۔ تر) [ژہ۔ ا۔ مذ] (۱) آلہ۔ اوزار۔ آلہ جبر قبیل (۲) ایک قسم کا باجر (۳) نیویڈنگلڈا۔ جادو ٹونا۔ نقش (۴) روغن اور عرق نکالنے کا برتن (۵) رمد گاہ (۶) علم نجوم کا کوئی نقشہ (۷) دھوپ گھڑی۔

جننتیہ - (ج۔ ا۔ مذ) (۱) بازی کرنا۔ شہیدہ بازی (۲) مکاری۔ فرقہ۔ کاری (۳) ٹونکا (۴) رمد گاہ۔

جننتی - (ج۔ ن۔ ری) [ژہ۔ ا۔ مرث] (۱) نفویم (۲) لوسبے کی سوراخ دار لمپیٹ جس میں سونے یا چاندی کے ناریوں کو رکھ کر انہیں لمبا کرتے ہیں (۳) وہ کتاب جس میں نجومی ستاروں کی گردش کا سالانہ حال تاریخ دار درج کرتے ہیں۔

مطابق آگ سے پیدا کی گئی ہے (۲) بھوت پرست۔ دیو۔ آسب (۳) زوح۔ ہمزاد (۴) غصہ۔ جلال۔ قمر صفت (۵) مندی۔ کرکش۔ (۶) مضبوط۔ سخت۔ جنکاش۔ عام انسانوں سے زیادہ کام کرنے والا (۷) ثابت قدم (۸) شورور۔ کرکش۔

جنن انا روینا - (ج۔ ا۔ مرث) (۱) کسی پرچن آیا ہوا ہوا تو اسے جھگادینا۔ آسب دور کرنا (۲) غصہ دور کرنا (۳) سیدھا کر دینا۔ مرثت کرنا۔
جنن انا روینا - (ج۔ ا۔ مرث) (۱) جنن یا آسب دور کرنے کا عمل پڑھنا (۲) میٹھے یا مرث آدمی کو ٹھیک کرنا۔

جنن چڑھنا - (ج۔ ا۔ مرث) (۱) آسب کا اثر ہونا (۲) غصہ چڑھنا۔ طیش آنا (۳) چڑھنا۔ غصہ ہونا۔ ہرٹ پر آجانا۔ تیج کرنا (۴) سودا ہونا۔ ضبط ہونا

جنن سوار ہونا - (ج۔ ا۔ مرث) (۱) غصہ ہونا (۲) آسب ہونا (۳) دھن یا ضبط ہونا۔

جنن شیشے میں انا رنا - (ج۔ ا۔ مرث) (۱) جنن کو قابو کرنا (۲) مندی یا مرث آدمی کو قابو کر لینا

جنن کا سایہ - (ج۔ ا۔ مرث) جنن کا اثر۔ جن کا سر پر سوار ہونا۔ جنن آنا۔ آسب ہونا۔

جنن - (ج۔ ا۔ مرث) [انگ۔ ا۔ مرث] ایک تیز سفید رنگ کی شراب جو مانج سے کشید کی جاتی ہے۔

جننا - (ج۔ نا۔ ہ) [ژہ۔ ا۔ مذ] (۱) آدمی۔ شخص۔ نقش۔ فرد (۲) صفت۔ پیلانڈو۔
جنناب - (ج۔ نا۔ ب) [ژت۔ ا۔ مذ] (۱) حضرت جننور۔ قبلہ (۲) آپ۔ صاحب۔ خود پرولت۔ خداوند (۳) درگاہ۔ آستانہ۔

جنناب اقدس - (ج۔ ا۔ صفت) عالی جناب۔ حضور پاک۔
جنناب عالی - (ج۔ ا۔ صفت) حضور اعلیٰ۔ عالی جناب۔ حضرت سلامت۔

جننابت - (ج۔ نا۔ بت) [ژت۔ ا۔ مرث] (۱) ناپاکی۔ نخواست۔ آلودگی (۲) خصوصاً وہ ناپاکی جو مرد و عورت کے صحبت کرنے یا اختلام سے ہو۔

جننات - (ج۔ ن۔ ات) [ژت۔ ا۔ مذ] جن کی جمع۔
جنناتی - (ج۔ ن۔ تی) [ژت۔ ا۔ صفت] جنات سے منسوب۔

جنناتی زبان - ایسی زبان جو سمجھ میں نہ آئے۔
جنناح - (ج۔ نا۔ ح) [ژت۔ ا۔ مذ] بازو۔ پر۔ پنکھ۔ جمع۔ آسب۔

جنناح - (ج۔ ا۔ مذ) گناہ۔
جننازہ - (ج۔ نا۔ زہ) [ژت۔ ا۔ مذ] (۱) لاشیں۔ مردہ جسم (۲) تابوت۔

جننازہ دیکھنے - (ج۔ ا۔ مرث) اپنی جان کی قسم دینا۔
جننازہ بھال - (ج۔ ا۔ مذ) گھوڑا۔ گھوڑے کی سواری۔

جننازہ مکملے - (ج۔ ا۔ مرث) مرے۔ مرحلتے۔
جننال - (ج۔ نا۔ ل) [ژت۔ ا۔ مرث] جننت کی جمع۔ بخشتیں۔

جننا جفوانا - (ج۔ نا۔ نا۔ جن۔ ا۔ نا) [ژہ۔ ا۔ مذ] بچہ۔

میں جس کے تحت چند نوعیں (انواع) ہوں۔ نوع وہ جس کے تحت اصناف ہوں۔ صنف وہ جس کے تحت افراد ہوں۔ مثلاً حیوان جنس ہے اور انسان نوع۔ جیسے ہندی۔ چھاپائی۔ چینی۔

جنس خانہ۔ (ع۔ ا۔ مذ) گودام۔ ڈپو۔
جنس وار۔ (ع۔ ف۔ صفت) (۱) قسم یا نوع کے مطابق قسموں کو ملانے لکھ کر فصلوں کی تقسیم (۲) وہ نقشہ جو پڑاوی لوگ کاشتہ جنس کی اقسام کے متعلق تفصیل وار کو پیش کرتے ہیں۔

جنسی۔ (جن۔ صفت) (۱) جنس کے متعلق (۲) مرد و عورت کے باہمی جسمانی تعلق کے بارے میں۔

جنسی امراض۔ (ع۔ ا۔ مذ) وہ بیماریاں جن کا تعلق مرد و عورت کے جنسی افعال سے ہے۔

جنسیات۔ (جن۔ صفت) (ع۔ ا۔ مذ) [ع۔ ا۔ مذ] وہ علم جس میں مرد و عورت کے جسمانی تعلق کی شرح کی جاتی ہے۔ شہوت یا اعضائے تولید کا علم۔

جنسیت۔ (جن۔ صفت) (ع۔ ا۔ مذ) [ع۔ ا۔ مذ] یکسانیت۔ ہم جنس ہونا۔ ایک میل کے ہونا۔

جنکشن۔ (Junction) (جنکٹ۔ شن) [انگ۔ ا۔ مذ] (۱) ملنے کی جگہ (۲) ایسا ریوے طیش جن جہاں دو سے زیادہ لائنیں اکٹری ہوں۔

جنک۔ (ع۔ ا۔ مذ) ایک جلد جس میں کسی کتا ہیں ہوں (۲) کتابوں کا پشتارہ۔ مٹھا (۳) بڑی بیاض (۴) [مٹھا] جوش۔ دھن (۵) کسی کھنڈ جنک۔ (ف۔ صفت) (۱) لڑائی۔ معرکہ (۲) دشمنی۔ تیر۔ کینہ۔ عداوت۔

جنک آرموور۔ (ف۔ صفت) جس کو جنک کا بجز یہ ہو۔ جو جنک میں شریک ہو چکا ہو۔ لڑائی کے طور پر تی سے واقف۔ بہادر۔ دلیر۔

جنک آور۔ (ف۔ صفت) (۱) شجاع۔ دلیر۔ بہادر۔ لڑائی کرنے والا۔ جنک جو۔ (ف۔ صفت) لڑاکا۔ لڑائی کے بہانے ڈھونڈنے والا۔

جنک جوئی۔ (ف۔ صفت) (۱) لڑائی جھگڑے کی عادت (۲) لڑنے کے بہانے ڈھونڈنے کا چمکا

جنک زرگری۔ (ف۔ صفت) (۱) مصنوعی لڑائی۔ دکھاوے کی لڑائی۔ جنک سر کرنا۔ (ع۔ ا۔ مذ) لڑائی پر فتح پانا۔

جنک گاہ (جنک گاہ) [ف۔ صفت] میدان جنک۔ لڑائی کا میدان۔ جنک منگولہ۔ (ف۔ صفت) (۱) دست بدست جنک (۲) انہو کی لڑائی۔ شجاست کے یقین ہو جانے پچھلے بادوں سے لڑنا۔

جنک و جہال۔ جنک و جہل۔ (ف۔ صفت) (۱) لڑائی۔ معرکہ۔ مار کٹائی (۲) جھگڑا۔ فساد۔

جنگل۔ (جن۔ صفت) [ع۔ ا۔ مذ] (۱) درختوں کی کثرت کا مقام۔ درختوں کی افراط (۲) صحرا۔ میدان بھلائی۔ ریگستان (۳) بھراؤ اور ویران جگہ (۴) چراگاہ۔

جنگل بڑی۔ (ف۔ صفت) (۱) جنگل کی کٹائی جنگل کا ٹکڑا۔

جنتری میں کچھنا۔ جنتری نکالنا۔ (ع۔ ا۔ مذ) (۱) سونے یا چاندی کے تار کا جنتری میں کچھنا (۲) کسی آدمی کے کسی بن نکل جانا۔ سیدھا ہونا۔

جنٹو۔ (جن۔ صفت) [ع۔ ا۔ مذ] (۱) جانور۔ حیوان (۲) ریگتے والے۔ کیرٹے۔ کھوڑے۔ حشرات الارض۔

جنٹی۔ (جن۔ صفت) (ع۔ ا۔ صفت) بہشت میں بسنے والا۔ جنٹیاں۔ (Gentleman) جن۔ ٹیل۔ مین (انگ۔ ا۔ مذ) (۱) شریف آدمی۔ باوقار شہری (۲) مغرب زدہ انسان۔

جنجال۔ (جن۔ صفت) [ع۔ ا۔ مذ] (۱) وبال۔ آفت۔ مصیبت۔ بلا (۲) بھیرا۔ پریشانی (۳) مشکل۔ دشواری (۴) حیرانی پریشانی (۵) وہ آدمی یا بات جس سے تکلیف ہو (۶) بوجھ۔ گلے کا بار (۷) پاؤں کی بڑی۔

جنجال میں پڑنا۔ جنجال میں پھینسنا۔ (۱) مصیبت میں پڑنا (۲) کسی جھگڑے میں الجھ جانا۔

جنجال ہو کر چھیننا۔ (ع۔ ا۔ مذ) بڑی طرح پیچھے پڑنا۔ جنجالی۔ (جن۔ صفت) [ع۔ ا۔ مذ] (۱) صفت [ع۔ ا۔ مذ] مصیبت ڈالنے والا۔

جنجری۔ (جن۔ صفت) [ع۔ ا۔ مذ] (۱) انگ۔ ا۔ صفت [ع۔ ا۔ مذ] اورک۔

جنجنا۔ (جن۔ صفت) [ع۔ ا۔ مذ] (۱) دیکھنے جینا۔ جنڈا۔ جنڈرا۔ (جن۔ صفت) [ع۔ ا۔ مذ] (۱) گھاس وغیرہ اکٹھی کرنے کا آدھ جس سے آبپاشی کے دوران مٹی اکٹھی کر کے کیاریاں بناتے ہیں۔ (۲) نقل۔ ۳۱۱۔

جنڈ پیر ستر۔ (ع۔ ا۔ مذ) خضیر اور دہلاؤ جو ادویات میں استعمال ہوتے ہیں۔

جنڈرے ڈھیلے ہونا۔ (ع۔ ا۔ مذ) (۱) محاورہ) سست ہونا۔ کابل ہونا۔ اعضائے جسمانی کا ڈھیلہ پڑ جانا (۲) چستی یا چھرتی نہ رہنا۔

جنڈری۔ (جنڈری) (ع۔ ا۔ صفت) [ع۔ ا۔ مذ] (۱) جان کی تصغیر۔ جنڈری کنوانا۔ (ع۔ ا۔ مذ) (۱) محاورہ) جان کھونا۔ (۲) عاشق ہونا۔

جنڈر۔ (ع۔ ا۔ مذ) [ع۔ ا۔ مذ] ایک جنگلی درخت جس کی لکڑی جلانے کے کام آتی ہے۔ جنرل۔ (General) جن۔ رل (انگ۔ ا۔ مذ) (۱) سب سے بڑا آدمی

انفر۔ فوج کا کمانڈر (۲) عام (۳) بڑا۔ جنرل پوسٹ آفس (General Post Office) بڑا ڈاکخانہ۔

جنرل مرکزی ڈاک خانہ۔ جنرل مرچنٹ۔ (General Merchant) ایسا سوداگر یا دوکاندار جس کے ہاں استعمال کی ہر چیز ملتی ہو۔

جنرٹور۔ (Generator) جن۔ رنے۔ ٹر (انگ۔ ا۔ مذ) پیدا کرنے والا (۲) کیس۔ بجلی وغیرہ پیدا کرنے والی مشین۔

جنس۔ (ع۔ ا۔ صفت) (۱) ذات۔ نوع۔ صنف۔ جماعت (۲) چیز۔ شے (۳) اسباب۔ سودا (۴) سامان۔ اثاثہ یا اشیائے منقولہ (۵) پیداوار۔ اناج۔ غلہ (۶) نسل (۷) علم قواعد میں تذکرہ قیامت (۸) منطق فلسفے

جنس۔ (ع۔ ا۔ صفت) (۱) ذات۔ نوع۔ صنف۔ جماعت (۲) چیز۔ شے (۳) اسباب۔ سودا (۴) سامان۔ اثاثہ یا اشیائے منقولہ (۵) پیداوار۔ اناج۔ غلہ (۶) نسل (۷) علم قواعد میں تذکرہ قیامت (۸) منطق فلسفے

جنس۔ (ع۔ ا۔ صفت) (۱) ذات۔ نوع۔ صنف۔ جماعت (۲) چیز۔ شے (۳) اسباب۔ سودا (۴) سامان۔ اثاثہ یا اشیائے منقولہ (۵) پیداوار۔ اناج۔ غلہ (۶) نسل (۷) علم قواعد میں تذکرہ قیامت (۸) منطق فلسفے

جنس۔ (ع۔ ا۔ صفت) (۱) ذات۔ نوع۔ صنف۔ جماعت (۲) چیز۔ شے (۳) اسباب۔ سودا (۴) سامان۔ اثاثہ یا اشیائے منقولہ (۵) پیداوار۔ اناج۔ غلہ (۶) نسل (۷) علم قواعد میں تذکرہ قیامت (۸) منطق فلسفے

زندگی - زلیست - عمر (۳) عادت خصلت (۶) اصل - بنیاد - نسل
(۵) خلقت - آفرینش (۶) ہمیشہ - دوام (۷) شروعات -
جہم اشمشمی - ہندوؤں میں بھادوں بدنی کی اٹھویں نائسخ جس دن
کرتھن جی کے جنم کی خوشی میں منائی جاتی ہے۔
جنم اندھا جنم کا اندھا - (۱) پیدائشی اندھا - مادر زاد اندھا۔
جنم بگاڑنا - (۱) زنا کرنا۔ بدکاری کر کے خراب کرنا۔ (۲) زندگی کو بے
لطف بنا دینا۔

جنم بگڑنا - (۱) بڑھ ہونا (۲) زندگی برباد ہونا۔
جنم بھومی - (۱-۵) - مرث) پیدائش کی جگہ - آبائی وطن۔
جنم پتیر - جنم پتیر - جنم پتیری - (۱-۵) - مذ - مرث) وہ کاغذ جس پر
کچھ کی پیدائش کا وقت دن اور مہینہ لکھا جاتا ہے (اس میں پیدائش
کے وقت ستاروں کی حالت کا نقشہ بھی بنواتے ہیں اسی سے بچے
کی تقدیر کا جائزہ لیا جاتا ہے)۔

جنم پتیر سب دیکھتے ہیں کرم پتیر کوئی نہیں دیکھتا۔ (ہنشل) حسب
نسب پر زور دینا مگر چال چلن اور طوطہ رقیوں کی چھان بین نہ کرنا۔
جنم پتیری کی بددھ تو بولا لو۔ (ہنشل) جلدی نہ کرو۔ سوچ سمجھ کر کام
کرو۔

جنم پٹا - (۱-۵) - مذ) عمر بھر کا اقرار نامہ۔
جنم آجک - عمر بھر (ق)
جنم لہلا - جنم جلی - (۵) - صفت) بد نصیب - بد قسمت (۶) مصیبت
زکوہ - دائم المرین۔

جنم جنم - سدا - ہمیشہ۔
جنم وانا - (۱) پیدائش کرنے والا - خدا (۲) باپ (۳) - آغاز کرنے والا۔
بالی۔

جنم وان - (ق) - (۱-۵) - مذ) پیدائش کا دن - ساگرہ۔
جنم ڈوبونا - (۱-۵) - مرث) گناہ کر کے اپنی زندگی خراب کر لینا (۲)
مذہب بدلنا۔

جنم روگی - (۵) - صفت) پیدائشی بیمار - جو پیدایہی مریض ہوا۔ دائم
المرین۔
جنم سدھ جانا - (۱) سدھرنا (۲) - محاورہ) زندگی بن جانا۔ حالت
سبکت اچھی ہو جانا۔

جنم کٹڈلی - (۱-۵) - مرث) زاپچہ - چھوٹی جنم پتیری۔
جنم کے اندھے نام نہیں سمجھ - (ہنشل) انابلت صفر دعویٰ بہت۔
جنم کے ساتھی ہیں کرم کے ساتھی نہیں ہیں - (ہنشل) ایک
ہی وقت میں پیدا ہونے کے لئے مگر تقدیر الگ الگ لاتے ہیں۔

جنم کے کرم بخت نام سخت اور سنگھ - (ہنشل) تقدیر کے لحاظ
سے پیدائشی بد نصیب ہیں مگر نام ایسا ہے کہ جیسے بڑے نعمتی نصیب
ہیں۔

جنم کے مہنگا - نام وانا رام - (ہنشل) پیدائشی بچک مگے مگر نام

جنمک بیابان - (ق) - (۱-۵) - مرث) ایسا جنگل جو بالکل ویرانہ ہو جہاں
کسی بسنی یا آدمی کا نام و نشان نہ ہو۔

جنمک پھرنا - جنمک جانا - (۱-۵) - محاورہ) پانفٹہ جانا - بریت الخلا جانا۔
جنمک جاٹ نہ چھیرے، ہتھی بیچ کر لڑ کلال - بھوکا ترک نہ
چھیرے ہو جائے تھی کا جچال - (۵) - مرث) جنگل میں جاٹ کو،
دوکان پر بیٹے کو اور بھوکے ترک کو نہ چھیرنا چاہیے۔

جنمک صاف کرنا - جنگل کے جھاڑ جھنکار کاٹ کر زمین کو صاف بنانا۔
جنمک کا تینتر - (۱-۵) - صفت) ڈر لوک بزدل۔

جنمک میں کھینٹی نہیں، بسنی میں نہیں گھر - (ہنشل) بالکل کھلا آدمی۔
جنمک میں منگل ہونا - (۱-۵) - محاورہ) ویرانے میں آبادی اور رونق ہونا یا
عین و عشرت کا سامان ہونا، ویرانے میں چل پل (ہونا)

جنمک میں مورنا چا، کس نے دیکھا (نماشا) - (۱-۵) - مرث) کام ایسا
ہونا چاہیے جسے سب دیکھیں - الگ تھک یا پردیس میں رہ کر کام
کرنے کی فائدہ (۲) نمود کا کام ایسی جگہ کرنا جہاں شہرت نہ
ہو سکے۔

جنمک ہو جانا جنگل ہونا - (۱-۵) - محاورہ) (۱) ویرانہ ہو جانا - بسنی یا شہر کا غیر آباد
ہو جانا (۲) خود رو درختوں کا بکثرت آگ آنا۔

جنمکلا - (جنگل - لا) - (۱-۵) - مذ) کٹڑی کی پھیبوں یا لوسے کی سٹانوں
کا وہ فرم جو دروازے یا باڑھ یا کٹھرے کے طور پر لگتے ہیں (۲) کوٹے
کٹاری کا مائیکہ جو دوپٹے وغیرہ پر لٹکنے یا بیٹنے ہیں (۳) مختلف نکل
کے بل ٹوٹے (۴) ایک قسم کا پھول دار کپڑا (۵) اجاڑ مکان (۶) جنگلی
کبوتر (۷) ایک راگنی کا نام (۸) غیر مانوس (۹) بیابان - صحرا (۱۰) بن
جھاڑی (۱۱) دیوان جگہ۔

جنمکلی - (جنگل - لی) [آر - صفت] جنگل کا صحرائی دستی - جنگل کے متعلق -
(۲) دستی - بھڑکنے والا - غیر مانوس (۳) بڑسیز - گنوار - غیر مذہب۔

جنمکلی آڈمی - (ق) - (۱-۵) - مرث) دستی آدمی (۲) غیر مذہب۔

جنمکلی بی - (ق) - (۱-۵) - مرث) جنگلی بلا - بن بلاؤ۔

جنمکلی بونی - (ق) - (۱-۵) - مرث) خود رو پودا۔

جنمکلی بیر - (ق) - (۱-۵) - مرث) چھوٹا لال چھلکے کا بیر جو جھاڑی میں لگتا ہے۔

جنمکلی چوہا - (ق) - (۱-۵) - مذ) گانٹ دار چوہا - سیبہ - موٹا۔

جنمکلی کبوتر ہونا - (۱-۵) - محاورہ) نامانوس ہونا - میل جول سے کترانا۔

جنمک سد - (ق) - (۱-۵) - مذ) پیرو مشد۔

جنمکلی - (جنگل - گی) [ق - صفت] (۱) جنگل کے متعلق (۲) قابل جنگ
(۳) فوجی (۴) بہادر (۵) فسادی (۶) [مذ] سپاہی - لشکری۔

جنمکلی بڑا - (ق) - (۱-۵) - مذ) بھری فوج کے جہاز۔

جنمکلی لاٹ - سپہ سالار - کمانڈر انچیف۔
جنم - (ج - تم) - (اس - ۱-۵) - مذ) پیدائش ہونا - پیدا ہونا - ولادت (۲)

جہ ہے، دینے والے۔ اصلیت شہرت کے بالکل برعکس ہے۔
 جہم گھنٹی (جہ - ا۔ مٹ) (۱) وہ گھنٹی جو پیدا ہونے ہی بجے کو دی جاتی ہے (۲) وہ چیز جس کی کسی کو مدت سے عادت ہی آ رہی ہو۔
 جہم لینا (جہ - محاورہ) پیدا ہونا۔
 جہم مرن (جہ - ۱ - ۵ - مذ) پیدائش اور موت۔
 جہم کیس بھٹو گنا (جہ - محاورہ) (۱) عیب لگانا، نہمت لگانا (۲) نام دھڑا (۳) لعنت طاعت کرنا۔ لعن طعن کرنا۔
 جہم نہ دیکھا پورا پائنے آئی کھاٹ (۱ - مٹ) (۲) غریبی میں اڑیں کی لیں کرنا۔
 جہمی (جہمی - جہ) (۱) پیدائشی - قدرتی (۲) زندہ چیز - جانور۔
 جہنا (جہن - نا) (جہ - مص) بچہ پیدا کرنا۔ بچے کو جنم دینا۔
 جہنا اور مرنا برابر (ہو تلمے) (۱ - مٹ) (۲) بچہ پیدا ہونے وقت عورت کو اتنی ہی تکلیف ہوتی ہے جتنی جان نکلنے میں ہوتی ہے۔
 جہنہ جہنہ میں جان جالے کا ڈر ہونا ہے۔
 جہنگ فیکٹری (جہنگ - فیک - ٹ - ری) (انگ - ۱ - مٹ) (۲) روئی سے بنولے الگ کرنے کا کارخانہ۔
 جہنگ مشین (Ginning Machine) (جہنگ - مٹ) (۲) روئی اونٹنے کی

گل - روئی سے بنولے الگ کرنے کی مشین۔
 جہنی (جہن - نی) (جہ - صفت) (۱) جہنے والی - مال۔
 جہنوا سا (جہن - وا - سا) (جہ - ۱ - مذ) (۲) وہ جگہ جہاں دلمن والوں نے دولا اور برتنوں کو ٹھہرانے کا انتظام کیا ہو (۳) خار دار جھاڑی۔
 جہنوائی (جہن - وا - نی) (جہ - ۱ - مٹ) (۲) دان کی نہیں - دیکھے جانی۔
 جہنوائی - جہنوائی (جہن - وا - نی) (جہ - ۱ - مذ) (۲) بیٹی کا شوہر۔
 داماد (۲) دکن - (۳) ایک گالی۔
 جہوب (جہ - ٹوب) (جہ - ۱ - مذ) (۲) دکن۔
 جہنوا (جہ - ٹو - ن) (جہ - صفت) (۱) جہوب کی طرح - جہوب کی سمت۔
 جہنوی (جہ - ٹو - نی) (جہ - صفت) (۱) دکن سے متعلق - جہوب کی سمت۔
 جہنوو (جہ - ۱ - مذ) (۲) لشکر - شطرنج کے ٹکڑے۔

جہنوری (January) (جہن - و - ری) (انگ - ۱ - مذ) انگریزی سال کا پہلا مہینہ، جو کئیس دن کا ہوتا ہے۔
 جہنوں (جہ - ٹوں) (جہ - ۱ - مذ) (۲) دیوانہ - پائل پین - سودا - جہن۔
 (۲) غصہ - طیش (۳) کسی چیز کی دشمنی۔
 جہنوں آنا (جہ - محاورہ) (۱) غصہ آنا - طیش آنا۔
 جہنوں اچھلنا (جہ - محاورہ) (۱) دیوانگی کا دورہ پڑنا - جہن سوار ہونا (۲) کسی چیز کی دشمنی لگانا۔
 جہنوں چڑھنا (جہ - محاورہ) (۱) پائل پین سوار ہونا (۲) غصہ آنا - طیش آنا۔
 جہنوں دوری - ایسا جہنوں جو ہر وقت نہ رہتا ہو بلکہ کبھی مریش جہنوں کی حالت میں ہوتا ہو بھی بالکل باحواس۔

جہنوی (جہ - ٹو - نی) (جہ - ۱ - صفت) (۱) جس کو جہنوں ہو - دیوانہ - پائل سودا۔
 (۲) غصیل (۳) ظالم - سفاک۔
 جہنوں (جہ - ٹوں) (جہ - مٹ) (۱) جن کی جمع یا جس کی جمع الجمع (جہ) کی جمع جن - جن کی جمع جہنوں۔
 جہنیل (جہن - نیل) (جہ - مٹ) (۱) جن کو - جن لوگوں کو - جن باتوں کو۔
 جہنے (جہ - ۱ - مٹ) (۲) جہنے جانے (۱) صفت (۲) باخبر - واقف - سیانے۔
 جہنی (جہ - نی) (جہ - ۱ - مٹ) (۲) عورت - زن (۳) بیوی (۴) مال۔
 (۵) ہو (۶) محاورہ - لوندی (۷) بیٹی - سہیلی - گویاں۔
 جہنی (جہ - نی) (جہ - ۱ - مٹ) (۲) پیاری۔
 جہنی (جہن - نی) (جہ - ۱ - مذ) (۲) بھوت پرست اُتارنے والا - سیانا۔
 جہنے (جہ - نے) (جہ - ۱) (۲) لفظ جہنے کا غصت - گویا جیسے - فرض کر دو۔
 (۳) خبر نہیں - معلوم نہیں - خدا جالے (۴) جہاں سے (۵) جمع کنی فرد۔

افراد
 جہنے کوئی کو نہ مکھانے کھائے کوئی (۱) (۲) (۳) (۴) (۵) (۶) (۷) (۸) (۹) (۱۰) (۱۱) (۱۲) (۱۳) (۱۴) (۱۵) (۱۶) (۱۷) (۱۸) (۱۹) (۲۰) (۲۱) (۲۲) (۲۳) (۲۴) (۲۵) (۲۶) (۲۷) (۲۸) (۲۹) (۳۰) (۳۱) (۳۲) (۳۳) (۳۴) (۳۵) (۳۶) (۳۷) (۳۸) (۳۹) (۴۰) (۴۱) (۴۲) (۴۳) (۴۴) (۴۵) (۴۶) (۴۷) (۴۸) (۴۹) (۵۰) (۵۱) (۵۲) (۵۳) (۵۴) (۵۵) (۵۶) (۵۷) (۵۸) (۵۹) (۶۰) (۶۱) (۶۲) (۶۳) (۶۴) (۶۵) (۶۶) (۶۷) (۶۸) (۶۹) (۷۰) (۷۱) (۷۲) (۷۳) (۷۴) (۷۵) (۷۶) (۷۷) (۷۸) (۷۹) (۸۰) (۸۱) (۸۲) (۸۳) (۸۴) (۸۵) (۸۶) (۸۷) (۸۸) (۸۹) (۹۰) (۹۱) (۹۲) (۹۳) (۹۴) (۹۵) (۹۶) (۹۷) (۹۸) (۹۹) (۱۰۰)
 اور فائدہ کوئی حاصل کرے (بچہ پیدا ہونے کے بعد زچہ کو طاقنت کے لیے کو نہ مکھانے کھائے ہیں - لیکن زچہ کے ساتھ ساتھ اوپر والے بھی کھاتے ہیں حالانکہ انہوں نے بچہ جہنے کی تکلیف نہیں اٹھائی ہوتی۔
 جہنیا (جہن - ای - آ) (جہ - ۱ - مذ) (۲) جان من - اسے میری جان۔
 جہنیں (جہ - نین) (جہ - ۱ - مذ) (۲) پیٹ کا بچہ - وہ بچہ جو رحم مادر میں ہو اور بچہ۔
 جہنیو (جہ - نیو) (جہ - ۱ - مذ) (۲) وہ بٹا ہوا دھاکہ جسے ہندو لوگ بدھی کی طرح لگے ہیں ڈالے رہتے ہیں (۳) جواہرات میں پڑا ہوا بال جہنیو کا ہاتھ - پٹے یا تلوار کا وہ ہاتھ جو مقابل کے سینے پر آڑا یا ترچھا مارا جاتا ہے۔

ج - و

جکو (ج - ۱ - مذ) (۱) ایک عمدہ جوڑی مال سفید رنگ کا ہوتا ہے۔
 (۲) [ج] شہیر - ذرا سا ٹیکل (۳) [ج] کا ٹیسرہ حصہ۔
 جکو بھر (ج - صفت) (۱) ذرا سا بھر ہی - قدر سے قلیل۔
 جکو جو (ج - صفت) (۱) ذرا ذرا سا - رتی رتی - کم سے کم مقدار۔
 جکو جو حساب لینا (جہ - محاورہ) (۱) حساب لینے میں چھوٹی سے چھوٹی رقم کے بارے میں بھی دریافت کرنا - آنتہانی سختی سے حساب لینا۔

یا اس میں ترنی کرتا ہے وہ اس میں نقصان بھی اٹھاتا ہے۔
جو خال اپنی حد سے بڑھا سو مسما ہوا۔ (۱) مثل، جو چیز اپنی حد سے
بڑھ جائے خواہ کتنی ہی خوبصورت ہو، بدناما معلوم ہونے لگتی ہے۔
جو درخت سامنے آئے وہی اوتٹ کا چارہ۔ (۱) مثل، ایسے
شخص کے متعلق کہتے ہیں جو بلا تیز بھلے بڑے سب کو نقصان
پہنچائے۔

جو دل میں بے وہی زبان پر ہے۔ (۱) مثل، ظاہر باطن کی یکسانیت
صاف باطن۔

جو دم سے قیمت ہے۔ (۱) مثل، کسی کی زندگی جیسے یا جس رنگ
میں گذری ہے، اچھا ہے۔

جو دوڑ کر چلا وہی گڑھا۔ (۱) مثل، جو شخص کسی کام میں ضرورت سے
زیادہ تیزی یا جلد بازی دکھاتا ہے وہ نقصان اٹھاتا ہے۔

جو دھرتی پہ آیا، اُسے دھرتی نے کھایا۔ (۱) مثل، جو دنیا میں پیدا
ہوا ہے وہ مرے گا ضرور۔ دنیا فانی ہے۔

جو راہ بتائے وہی آگے چلے۔ (۱) مثل، صلاح مشورہ بھی دے اور
پھر اس کام کو انجام بھی دے۔

جو ساوان میں برکھا ہوتے، کھوج کال کا بالکل کھوئے (۱) مثل
ساوان کے مینے میں بارش (برکھا) ہو جائے تو قحط سالی ناممکن
ہو جاتی ہے۔

جو سحری کھائے وہی روزہ رکھے۔ (۱) مثل، جو فائدہ اٹھا رہا ہو
اسی کو محنت بھی کرنی چاہیے۔

جو سہراٹھا کے پٹلے گا وہی تنھو کر کھائے گا۔ (۱) مثل، جو شخص
غور کرے گا وہ ذلیل ہو کر رہے گا۔

جو سوسے گا وہ روئے گا۔ (۱) مثل، غافل شخص بالآخر چھٹتا ہے۔

جو کام حکمت سے نکلتا ہے حکومت سے نہیں نکلتا۔ (۱) مثل،
جو بات حکمت عملی یا ادائیگی سے ہو سکتی ہے وہ زور اور طاقت کے
جو کچھ نہیں ہو سکتی۔

جو کچھ۔ جس قدر۔ جتنا۔ جہاں تک۔
جو کرے سو بھرے۔ (۱) مثل، (۱) جس نے نقصان کیا وہی ہرجانہ
دے (۲) جو بڑا کرتا ہے وہی سزا پاتا ہے۔

جو کسی کے لیے کنواں کھووتا ہے، اس کے لئے کھاتی تیار
ہے۔ (۱) مثل، جو کوئی کسی اور کو نقصان پہنچانے کی سوچتا ہے قدرت
اُس کو نقصان پہنچاتی ہے۔

جو کھل ہونا ہے آج ہو جائے۔ (۱) مثل، (۱) جلدی ہونا۔ محبت یا
کھلم کھلا ہونا (۲) کام جلد ختم کرنے کی تاکید۔

جو کوئی کھائے، وہ کھجے کل پائے۔ (۱) مثل، جو اوروں کو ستانا
رہے وہ خود بھی کبھی چین نہیں پاتا۔

جو کوئی۔ (۱) ہر ایک۔ ہر کوئی۔
جو کہ۔ (۱) چونکہ۔ اگرچہ (۲) کلمہ وضاحت یا تفصیل۔

جو کوب۔ (دست۔ صفت) کونا ہو جو۔ موٹا ہو یا ڈرور کنگا ہو جو (۲)
جو کے برابر رکھو میں کنگا ہوا۔

جو۔ (دست۔ ۱) مؤنث [۱] مذکر۔ نالا۔ سونا۔ نذر [صفت] ڈھونڈنے والا۔
تلاش کرنے والا۔ مرکبات کے ساتھ مل کر آتا ہے جیسے جو جو۔

جو۔ (۱) حرف صلہ جو شخص۔ جو چیز۔ جو بات (۲) [اسم ظرف] جس قدر (۳)
[اسم موصول] جیسا۔ (۴) [صفت] جو کوئی۔ جو کچھ (۵) [حرف شرط]

اگر۔ بشرطیکہ (۶) اچانک (۷) جس سبب سے۔ جس بنا پر (۸) [دست۔
اسم موصول] جس وقت۔ جب کہ۔

جو آگ کھائے گا انگارے کھے گا۔ (۱) مثل، جو بڑے کام کرے گا
اُسے ان کا نتیجہ جھگڈنا پڑے گا۔

جو اپنے کام نہ آئے وہ پورے میں جائے۔ (۱) مثل، بے فیض آدمی
کسی کام کا نہیں ہوتا۔

جو باومن کی پو پھتی میں، سو باوروں کی زبان پر۔ (۱) مثل، جو بات
پنڈت نے اپنی کتاب میں لکھی ہے (یعنی ماز میں ہے) وہ ہم سے
بیٹھے ہیں۔ اپنی عقل کی رسائی جتنا تاکہ ہم تمہارے دل کا ماز جانتے

ہیں۔
جو بندھ گیا سو موتی۔ (۱) مثل، جو انسان تکلیفیں اور مصیبتیں اٹھا کر کچھ
نیکیہ تیار ہے وہی کام کا آدمی بنتا ہے۔

جو بولے سو گنڈا کھولے۔ (۱) مثل، جو تجویز پیش کرے وہی اس پر
عمل بھی کر کے دکھائے۔

جو بولو گئے وہی کاٹو گے۔ (۱) مثل، جیسا کرو گے ویسا ہی اکل کھیل
لے گا۔

جو بہت قریب وہ زیادہ رقیب۔ (۱) مثل، اپنے رشتہ دار اور
دوست اوروں سے زیادہ حسد اور مخالفت کرتے ہیں۔

جو پھل چھپا نہیں وہی بیٹھا۔ (۱) مثل، اُن دیکھی چیز کی قدر
نواہی نواہی ہوتی ہے۔

جو پہلے مارے سو میری۔ (۱) مثل، جو موقع نکلنے ہی فائدہ اٹھائے وہی
کامیاب رہے گا (۲) جو منگالے یا لڑائی میں چھوٹے ہی مار بیٹھے گا

وہ جیت جائے گا۔
جو چائے گا سو پائے گا۔ (۱) مثل، جو ہوشیار اور چکرتا رہے گا وہ فائدہ
اٹھائے گا۔

جو جو۔ (کلمہ تعنیص) بہت سی چیزوں میں سے چند چیزیں (جو
پسند یا مطلوب یا درکار ہوں)۔

جو جو کچھ۔ جتنی قدر کے۔ جیسے جیسے
جو جو مرئی موٹی واہ وہ دم چھوٹی۔ (۱) مثل، جس قدر دولت بھنی

ہے اسی قدر بھل بڑھتا ہے۔
جو جیت جائے وہی بھلا لڑی۔ (۱) مثل، جو شخص کامیابی حاصل کرے

وہی قابل کھلتا ہے۔
جو چڑھے گا سو (ڈھنڈے) کرے گا۔ (۱) مثل، جو کسی کام میں پڑتا ہے

جو کو سو بھیتی سپہ۔ (۱- ایش) جتنا برا کوٹھیک ہے۔
 جو گوکھے جیتیں سنگرام، تو کاہتے تازمی خرمیں دام۔ (ایش)
 اگر عربی گھڑوں کی بجائے گدھوں سے لڑائی جیتی جا سکے تو عربی
 گھڑوں پر کیوں زیادہ خرچ کیا جائے۔ (ایش) یعنی بگھارنے والے نکلے ہوتے
 ہیں۔

جو گوگردیے سے مے اے زہر کیوں دیا جائے۔ (ایش) جو کام
 نرمی سے نکل سکتا ہو اس میں سختی نہیں کرنی چاہیے (۲) جو شخص اچھے
 سلوک سے رام ہو رہا ہو اس کے ساتھ بدسلوکی نہیں کرنی چاہیے۔
 جو گوگرد لکھائے کان چھدائے۔ (ایش) انسان لالچ میں اگر نقصان
 اٹھاتا ہے۔

جو ماں سے زیادہ چاہے وہ پھا پھا کٹنی کھلائے۔ (ایش)
 اولاد کی جتنی محبت ماں کے دل میں ہوتی ہے اور کسی کے دل
 میں نہیں ہوتی۔ کوئی اور عورت ماں سے زیادہ محبت جتنائے تو وہ
 دھوکے باز ہے۔

جو مٹن میں بے۔ سو پینے دے۔ (ایش) جو شخص یا چیز دل
 سے پسند ہو وہ خواب میں بھی دکھائی دیتی ہے۔

جو میرے سو تیرے، کاہتے دانٹ پھوڑے۔ (ایش) میری
 اور تیری دونوں کی حالت ایک جیسی ہے پھر تو مجھ سے کیوں پیش
 یں آتا ہے۔

جو نہ بھائے آپ کو، وہ بڑی بہو کے باپ کو۔ (ایش) جو
 چیز یا کام اپنے لیے پسند نہ کرنا وہ اوروں کے لیے تجویز کرنا۔
 جو وعدے سے پھرا سو خدا سے پھرا۔ (ایش) وعدہ پورا نہ کرنا ایسا
 ہی ہے جیسے خدا سے باغی ہونا۔

جو ہانڈی میں سو ڈوٹی میں۔ (ایش) (۱) جو دل میں ہوتا ہے وہی
 زبان پر آتا ہے (۲) اصلیت ظاہر ہو کر رہتی ہے۔
 جو ہو سو ہو۔ (ایش) (۱) جو کچھ پیش آئے برداشت کریں گے (۲)
 جو کچھ ہونے لگے (ہو جائے گا) (۳) (ہم اپنی سی کرچے اب) جو نتیجہ ملے۔
 بگو۔ [ع-۱- مد] آسمان اور زمین کا درمیانی فاصلہ۔

جوہا۔ (ع-۱- ۱) [ع-۱- مد] لسن کی پونھی کا ہر ایک جڑ و یا پھانک۔
 (۲) ایک قسم کا کام جو کار جوہ یا کشیدے پر کاڑھا جاتا ہے۔

جوہا۔ (ع-۱- ۱) [ع-۱- مد] وہ گٹھی جوں یا گاڑی کھینچنے والے سیلوں
 کے کندھے پر رکھی جاتی ہے (۲) قمار بازی۔ شرط سے داؤں لگانا۔
 جو اڑا بیو پار جو اس میں نہ ہونی مار۔ (ایش) اگر جو کھیلنے میں ہار
 کی نوبت نہ آیا کرے تو یہ سب سے زیادہ نفع کا کاروبار ہے۔
 ہوا چور۔ (۱- صفت) وہ جواری جو اپنا داؤں جیت کر کھسک جائے۔

جو اڑال دینا۔ (۱- محاورہ) (۱) جہت ہار دینا (۲) جھک جانا۔
 جو اھیلنا۔ (۱- محاورہ) قمار بازی کرنا۔ داؤں لگانا۔ پاس لگانا۔
 جو اہارنا۔ (۱- محاورہ) (۱) جو گردن سے اٹار چھیننا (۲) جو گردن پر

رکھے رکھے تھک جانا (۳) قمار بازی میں شکست کھانا۔ ہارنا۔
 جوہے خانہ۔ (۱- مد) وہ جگہ جہاں جٹا ہوتا ہو۔ قمار خانہ۔

جوہا۔ (ع-۱- ۱) [ع-۱- مد] (۱) سوال کی بند۔ جو کچھ کھکھ کر یا
 زبانی پوچھا جائے اس کے بارے میں بنائی گئی بات (۲) جوڑا۔
 جھنت (۳) (۱) ریاضی کی اصطلاح (۲) سوال کا حل (۳) متقابل۔ ہم عمر۔
 جوڑا کا ثانی (۵) (۱) سلام کیا جائے تو اس کے جواب میں (۲) سلام (۳) پیغام
 ملنے پر پلٹ کر پیغام بھیجنا (۴) (قانونی اصطلاح میں) تردید (۵) نامعلوم
 (۹) بدلہ۔ عوض (۱۰) موقوفی۔ بطلنی۔ معزولی (۱۱) رشتہ واپس کرنا۔
 جوہا۔ (۱) جواب کا جواب۔ ایسا جواب جس سے موصولہ جواب
 رد ہو۔

جواب باصواب۔ (ع-۱- ۱) [ع-۱- مد] ایسا جواب جو حسب مراد ہو۔ مناسب
 یا معقول جواب۔

جواب پانا۔ (۱) [ع-۱- مد] ملازمت سے علیحدہ ہونا (۲) سزا پانا (۳)
 بدلہ ملنا (۴) سوال کا جواب ملنا۔ خط کا جواب آنا (۵) انکار ہونا۔
 نام منظور ہونا۔

جواب پڑھنا۔ (۱) مشیروانوں یا سوزخانوں کا پہلے مصرع کو دہرانا۔
 جواب تکرکی پڑھنا۔ (ع-۱- ۱) [ع-۱- مد] سخت بات کا سخت جواب
 دینا۔ کھری کھری شنانا۔

جواب تک نہ دینا۔ (۱- محاورہ) (۱) بات تک نہ کرنا۔ (۲) چپ
 سا دھ لینا۔ ناراض ہونا۔

جواب تلخ۔ (ع-۱- ۱) [ع-۱- مد] جواب میں کڑوی یا ناگوار بات کہنا۔
 جواب جہاں باشد غموسی۔ (ایش) (۱) جاہلوں کی باتوں کے
 جواب میں خاموش رہنا چاہیے۔

جواب دعویٰ۔ (ع-۱- ۱) [ع-۱- مد] دعویٰ کا قانونی جواب۔ مدعا علیہ کی
 جانب سے تحریری جواب۔

جواب دہ۔ (۱) [ع-۱- مد] دار۔ باز پرس کے قابل (۲) مدعا علیہ (جس پر مقدمہ
 دائر کیا گیا ہو)۔

جواب دہی۔ (ع-۱- ۱) [ع-۱- مد] (۱) فمداری (۲) عدالت میں
 مدعا علیہ کی طرف سے پیروی۔

جواب دہی سے بری کرنا۔ (۱- محاورہ) (۱) ذمہ دار قرار نہ دینا
 (۲) مقدمے کی پیروی کی پابندی نہ دینا۔

جواب دہی کرنا۔ (۱- محاورہ) (۱) مواخذہ کرنا۔ باز پرس کرنا۔
 جواب دے جانا۔ (۱- محاورہ) کسی چیز کا بے کار ہونے سے صرف ہو
 جانا (۲) کسی آدمی کو کام کرنے سے انکار کر جانا (۳) عاجز ہونا۔

جواب دے دینا۔ (۱- محاورہ) (۱) موقوف کر دینا (۲) چھوڑ دینا۔
 (۳) قطعی انکار کر دینا۔

جواب دینا۔ (۱) جواب دیا سوال (۲) پوچھی جلتے اُس کے بارے
 میں بتانا (۳) خط کا جواب لکھنا (۴) سلام کے جواب میں سلام کرنا
 (۵) پیغام کے جواب میں پیغام بھیجنا (۶) عدالت میں فریق مخالف

جواں مرگ - جوانا مرگ - (ف. صفت) (۱) جوانی میں مرنے والا (۲) (بددعا)
 جواں موت مرنے والا - (۱) محاورہ) میں جوانی میں مرجانا - بے وقت موت آنا۔
 جوانا - (رج. وا۔ نا) [ا۔ مذ] اسے جوان بچپن و آفرین کا اظہار (۲) دل بڑھانے یا ہمت بندھانے کے لیے بھی کہتے ہیں۔ مرکبات میں مستعمل ہے۔
 جوانا - (ق. مص) [ا۔ مذ] کرنا۔ جیلانا۔
 جوانان حین - (رج. وا۔ نا۔ بن۔ ج. من) [ف. ا۔ مذ] باغ کے خوشبو و درخت۔
 جوانب - (رج. وا۔ نب) [ع. ا۔ مذ] کرنا۔ جانب کی جمع۔ طرفین۔
 جوانوں کو آئی سستی، بڑھوں کو آئی سستی - (امثل)۔ انا زمانہ ہے۔
 جوانی - (رج. وا۔ نی) [ف. ا۔ مرث] (۱) جوان ہونے کا زمانہ۔ شباب (۲) بلوغت۔
 جوانی اُبھرنا - (۱) محاورہ) (۱) جوان ہونے کی علامتیں ظاہر ہونا۔ جوانی شروع ہونا۔ آغاز شباب (۲) قد نکالنا۔ بدن گدانا۔
 جوانی اترنا۔ جوانی اترنا - (۱) محاورہ) جوانی ختم ہو جانا۔
 جوانی اٹھنا - (۱) محاورہ) جوان ہونا۔ شباب کا آغاز ہونا۔
 جوانی پھٹ پڑنا۔ جوانی پھٹی پڑنا - (۱) محاورہ) جوانی کا زوروں پر ہونا۔
 جوانی چڑھنا - (۱) محاورہ) بلوغت کی عمر کو پہنچنا۔ شباب کا زوروں پر ہونا۔
 جوانی خاک کرنا - (۱) محاورہ) جوانی بٹا دینا۔ جوانی قربان کر دینا۔
 جوانی دوانی۔ جوانی دیوانی - (مثلاً) جوانی کے زمانے میں انسان کو تشبیب و فزائیں سوجھتا۔
 جوانی ڈھل جانا۔ جوانی ڈھلنا - (۱) محاورہ) دیکھیے جوانی اترنا۔
 جوانی کا پھل - (۱) محاورہ) عیش و آرام جوانی کے موسم۔
 جوانی کا پھل پلے، جوانی کا شکہ دیکھے۔ دُعا جوانی میں عیش کرے یا آرام سے زندگی گزارے۔
 جوانی کا عالم - (ف. ا۔ مذ) (۱) جوانی کی حالت (۲) جوانی کا زمانہ۔ شباب کا زمانہ۔
 جوانی کی اُمنگ، جوانی کی ترنگ - (ف. ا۔ مرث) جوانی کا جو ش یا ولولہ۔
 جوانی کی باتیں - (۱) مرث) (۱) وہ کارنامے جو کسی نے جوانی کے زمانے میں دکھائے ہوں (۲) جوانی کے واقعات یا نکتے۔
 جوانی کی بے بند - (۱) مرث) گہری بے بند۔ بے خبر سونا۔
 جوانی میں کیسے بڑھاپے میں کبھی - (امثل) جوانی کے دنوں میں خدا کی عبادت کرتے رہے بڑھاپے میں فاحشہ سے بے غفلت

پیدا کر لیا۔ بہرات اُلٹی۔
 جوانی میں گدھی پر بھی جو بن جوتا ہے۔ (امثل) بد صورت مرد عورت بھی جوانی میں بچھل معلوم ہوتے ہیں۔ شباب میں بڈگل کی بھی شکل اچھی معلوم ہوتی ہے۔
 جوانی میں ماجنھا ڈھیلنا۔ (۱) محاورہ) جوانی میں سستی اور کبابی۔
 جوانی ہر - (رج. وا۔ ہر) [ع. ا۔ مذ] جوانی کی جمع۔ اردو میں واحد بھی بولا جاتا ہے۔ قیسی پتھر۔ الماس۔ یاقوت۔ لعل۔ ہیرا وغیرہ جمع جوانی ہر۔
 جوانی ہر - (مکب) (۱) کسی زوردار یا کسی چیز میں جوانی ہر بڑی خوبصورتی سے لگانا (۲) بہت خوبصورتی سے لکھنا۔
 جوانی خانہ - (ع. ف. ا۔ مذ) وہ جگہ جہاں جوانی رکھے جاتے ہیں۔ جوانی میں تولنا۔ (۱) محاورہ) قدر کرنا۔ وقعت کرنا۔
 جوانی نگار - (ف. صفت) مرث۔ جڑاؤ (۲) خوشخط خوبصورت لکھنے والا۔
 جوانی ہر - (رج. وا۔ و۔ لات) [ع. ا۔ مذ] جوانی کی جمع یا جمع صرف اردو میں مستعمل ہے۔
 جوانی (Jubilee) [جوبلی۔ لی] [ا۔ مذ] (۱) ساگرہ جشن ساگرہ (۲) جشن مسرت (۳) پچیس یا پچاس سال کے بعد منائی جانے والی تقریب۔
 جوانی - (جو۔ بن) [ع۔ ا۔ مذ] خوبصورتی۔ جشن (۲) چڑھتی جوانی۔ عشقوان شباب (۳) بلوغت (۴) طراوت۔ شانابی۔ سرسبز۔ (۵) رونق۔ ہمار (۶) کیفیت۔ حالت۔ (۷) عورت کا سینہ یا پچھانی۔
 جوانی اُگنا۔ اُگنا۔ اُمنڈنا - (۱) محاورہ) (۱) جوانی کا آغاز ہونا (۲) رونق یا بہار ہونا (۳) لڑکی کی چھاتیوں کا اُبھرنے یا گدانا۔
 جوانی برستا - (۱) محاورہ) (۱) رونق چھانا (۲) خوبصورتی ظاہر ہونا۔
 جوانی پر آنا۔ جوانی پر ہونا - (۱) محاورہ) (۱) بارون یا پُر رونق ہونا (۲) حسن کا زیادہ سے زیادہ دلکشی اختیار کرنا (۳) کھلنا۔ ہمار پر آنا۔ شگفتہ ہونا۔ سرسبز ہونا۔ (۴) جوانی کا آغاز ہونا۔
 جوانی پھٹا پڑنا۔ جوانی پھٹ پڑنا - (۱) محاورہ) جوانی یا خوبصورتی کا بہت دلکش بن جانا۔ حسن میں نہایت اضافہ ہونا۔
 جوانی تنہا جب روپ تنہا کا کہک تنہا سب کوئی۔ جوانی تنہا گوا کے باہر نہ لپوٹھے کوئی۔ (امثل) جن دنوں جوانی (جوبلی) اور حسن (رُوب) تنہا سب چاہتے تھے، ہر کوئی گرویدہ تھا۔ جوانی اور حسن نہ لپوٹ کوئی منہ نہیں لگاتا۔ لوگوں کی نفرت کی رمز بیان کی ہے کہ رونق پر منڈلاتے ہیں۔ بے رونقی سے دُور دُور رہتے ہیں۔
 جوانی ٹیکنا - (۱) محاورہ) جوانی یا حسن کا نمایاں ہونا۔ جوانی ظاہر ہونا۔
 جوانی چمکانا۔ (۱) محاورہ) (۱) جوانی دکھانا (۲) جوانی کا اُبھار دکھانا۔
 جوانی دکھانا - (۱) محاورہ) (۱) حسن کی بہار دکھانا۔ ایشیہ ایشیہ کرنا۔ (۲)

سینہ تان کر یا سینہ نکال کر چلنا
 جو بون ڈھلنا (۱) جوانی ڈھلنا حسن کو زوال ہونا (۲) عورت کی چھاپنا
 لٹک جانا (۳) رونق نہ رہنا۔
 جو بون کا مانا (۴) جو بون کی ماتی (۱-۱) مٹنا (۲) جوانی کے نٹنے میں جوانی
 کی مستی۔
 جو بون لٹنا۔ جو بون ٹوٹنا۔ (۱-۱) محاورہ (۲) بہار لٹنا۔ رونق ختم ہونا (۳)
 حسن پر دست درازی کرنا (۴) مرنے والا۔ (۵) عین عورت کے ساتھ
 ہم بستری ہونا۔

جو بون نکالنا۔ جو بون نکلتا۔ (۱-۱) محاورہ (۲) رونق پر آنا (۳) بہار پر
 آنا (۴) بوخت کو پہنچنا (۵) جوانی یا حسن کا دکھش شکل اختیار کرنا۔
 (۶) خوبصورت بننا۔

جو بونٹ۔ [۱-۱] مذا [جو بونٹا کا مخمخت۔] بڑا بونٹا۔
 جو بونٹ۔ (۱) واؤ (مجمول) [۱-۱] مرث [۱] روشنی۔ اجالا۔ ٹود (۲) آنکھ
 کی روشنی۔ نظر۔ بصارت (۳) رونق (۴) چمک۔ دمک (۵)
 شعلہ۔ ٹو (۶) چراغ۔ دیا۔ لیمپ۔ بتی (۷) دھن۔ ند۔ مال۔
 (۸) فروغ۔ جان۔

جو بونٹ بتی کرنا۔ جو بونٹ چڑھانا۔ (۱-۱) محاورہ (۲) مندر میں دیا جلانا۔
 دیوتا کے آگے چراغ یا دیار رکھنا۔

جو بونٹ بڑھانا۔ (۱-۱) محاورہ (۲) عکس پڑنا۔ روشنی پڑنا۔
 جو بونٹ بڑھانا۔ (۱) چلنے یا لیمپ روشن کرنا (۲) کسی نیک کام یا
 اصلاحی شے کے آغاز کرنا۔ (۳) موکلوں کا حاضر ہونا۔

جو بونٹ۔ (۱) واؤ (مجمول) [۱-۱] مذا [جو بونٹے سے گھوڑے کو گاڑی کے
 ساتھ جوتا جاتا ہے (۲) ہل کے بیوں کے گلے کا نمبر جس سے
 بڑا یا ہتھکڑی (۳) آبپاشی کے ٹوکرے کی دہلی کی پاس
 والا نمبر (۴) ترازو کے پلڑوں کا نمبر (۵) جہاز کے رستے۔
 (۶) ہل یا گاڑی میں بیوں کا بونٹا (۷) زراعت۔ کھیتی باڑی۔
 (۸) کاشت شدہ زمین (۹) وہ ٹکڑے جو خود کاشت کیا جائے۔
 (۱۰) لگان جو کاشتکار دینا ہو (۱۱) دوکان کا سامان (۱۲) جو بونٹا
 کا نمبر۔

جو بونٹ جمع۔ (۱-۱) مرث [لگان۔ وہ روپیہ جو کاشت کار ادا کرے۔
 جو بونٹ دار۔ (۲) ف۔ ۱۔ مذا [ہل چلانے والا کاشت کار۔ مزارع۔
 جو بونٹ دینا۔ (۳) بیوں کو گاڑی یا ہل میں لگانا (۴) گھوڑے کو گاڑی
 میں جوڑنا (۵) کام میں لگانا (۶) کاشت کرنا (۷) ڈھب پر
 لانا۔

جو بونٹ ہل تو یا بونے پھل۔ (۱) مرث [مخمت اور کوشش سے
 کامیابی ہوتی ہے۔
 جو بونٹا۔ (۱-۱) مذا [۱] مزارع۔ کاشت کار (۲) ہل جو بونٹے
 والا (۳) اسامی۔ کسان (۴) ہم بستری ہونے والا (۵) حدفاصل۔
 تقسیم دیوار۔ (۶) گردن کے پاس کے پٹھے۔

جو بونٹا۔ (۱-۱) مذا [۱] پاؤں میں سینے کی چیز جو چھڑے یا کپڑے
 اور ریشہ وغیرہ کی سبب ہوتی ہے۔ یا پوش۔ کش (۲) گھانا۔ نقصان۔
 ٹوٹا گھٹا (۳) طنز (۴) احسان۔ سلوک۔

جو بونٹا اٹھانا۔ جو بونٹا اٹھالینا۔ (۱) محاورہ (۲) مارنے کے ارادے سے
 بونٹا اٹھانے میں سنبھالنا۔ گستاخی کرنا (۳) بونٹا اچھالنا۔
 جو بونٹا اچھلنا یا چلنا۔ (۱) محاورہ (۲) جوتوں سے لڑنا (۳) دنگنا۔ لڑائی
 جھگڑا۔

جو بونٹا برسنا۔ (۱) محاورہ (۲) نڑنا بونٹے مارے جانا (۳) جوتوں کی مار
 پڑنا (۴) جوتے مارنا۔

جو بونٹا برسنا۔ (۱) محاورہ (۲) جوتے پڑنا۔ مارا پھینکا جانا۔
 جو بونٹا پڑنا۔ (۱) محاورہ (۲) جوتوں کی مار پڑنا (۳) گھانا یا نقصان ہونا (۴)
 منہ توڑ جواب پانا۔ (۵) منہ سے پرہیز پڑنا۔

جو بونٹا پینے سانی کا بڑا بھروسہ بیادھی کا۔ جو بونٹا پینے نرمی کا کیا بھروسہ
 کرے گی۔ (۱) سانی کا بونٹا اور بیادھی عورت قابل اعتبار ہوتی ہے۔
 بازاری جوتے اور آتش عورت کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔

جو بونٹا پیزار۔ جو بونٹوں سے لڑائی۔ (۱) لڑائی جھگڑا۔ دنگنا۔ مار پیٹ۔
 جو بونٹا جاتی۔ (۱) محاورہ (۲) ایک دوسرے کو جوتیوں سے مارنا (۳)
 لڑائی جھگڑا۔

جو بونٹا چلانا۔ (۱) محاورہ (۲) کسی جوتے کو بہت عرصے تک ثابت
 رکھنا (۳) کسی خاص قسم کے جوتے کی مانگ پیدا کر دینا۔
 جو بونٹا چلنا۔ (۱) محاورہ (۲) جوت پیزار ہونا (۳) کسی جوتے کا کافی عرصے
 تک نہ ٹوٹنا۔

جو بونٹا چھپانا۔ (۱) محاورہ (۲) شادی کی تقریب میں دلہن کی رضعتی کے
 موشفے پر سایوں کا نوشاہ کے جوتے چھپانے کی رسم جس میں نیک
 (یعنی نقدی) سے کر جوتا دیا جاتا ہے۔
 جو بونٹا دینا۔ (۱) محاورہ (۲) چھپنے کے لیے جوتا پیش کرنا (۳) جوتا مارنا۔ (۴)
 بے عزتی کرنا۔

جو بونٹا سر پر ٹوٹنا۔ (۱) محاورہ (۲) بہت زیادہ مارنا۔
 جو بونٹا لٹنا۔ (۱) محاورہ (۲) نقصان ہونا۔ گھانا یا خسارہ ہونا۔
 جو بونٹا مارنا۔ (۱) محاورہ (۲) جوتے سے مارنا (۳) لعنت ملامت کرنا۔
 (۴) احسان کر کے شرمندہ کرنا۔

جو بونٹا وا۔ (جو بونٹا۔ ۱) [۱] صفت [جو بونٹے کے قابل۔ وہ زمین جو قابل
 کاشت ہو۔

جو بونٹہ۔ (۱-۱) مذا [۱] ساز کا وہ نمبر جو گاڑی سے لگایا جاتا ہے۔
 جو بونٹہ۔ (۲) رشت۔ (۳) رشتہ۔ (۴) مرث [جانناں کا پھول۔
 جو بونٹہ۔ (۵) رشتہ۔ (۶) مرث [مستاروں کا علم۔ علم نجوم۔
 جو بونٹہ۔ (۷) رشتہ۔ (۸) رشتہ۔ (۹) مرث [نجومی۔
 جو بونٹہ جو بونٹا۔ (جو بونٹا۔ ۱) [۱] مذا [۱] فریقین کا ایک دوسرے کو
 جو بونٹوں سے مارنا پھینکا۔

جوشنا - (جوشن - نا) (واو جمول) [جھ - مص] [۱] بیلیوں کو ہل یا گاڑی میں لگانا (۲) گھوڑے کو گاڑی میں جوڑنا۔ (۳) مصروف کرنا۔ کام میں لگانا۔ (۴) ہل چلانا (۵) عوامی زبان اپنے ڈھب پر لے آنا۔

جوتنی - (جو - تی - واو جمول) [جھ - ۱ - مش] [۱] ترازو کی سی یا وہ سی جس میں ترازو کے پتے اور ڈنڈی بندھی ہوتی ہے (۲) وہ سی جو ہل کی گردن میں جوڑنے کے روکنے کے واسطے بندھی جاتی ہے (۳) روشن چکیلا - (تی)

جوتنی - (جو - تی) [جھ - ۱ - مش] [۱] جوتنا کا مؤنث - پیزار - جوتنی پر جوتنی چڑھنا - (۱ - محاورہ) ایک جوتنی پر دوسری جوتنی رکھی جانا۔ جس سے سفر کا ٹکڑا لگن لیتے ہیں۔

جوتنی پر رکھ کر روٹی دینا - (۱ - محاورہ) حقارت سے روٹی دینا۔ ذلیل کرنے کی روٹی کھلانا۔

جوتنی پر کابل پاڑنا - ماہل خاندانوں میں شادی کے موقع پر عورتیں یہ ٹوکھا کرتی ہیں کہ دولہن کی جوتنی پر کابل پاڑ کر دولہا کی آنکھوں میں لگاتی ہیں تاکہ وہ بیوی کے ساتھ اچھا رہے۔

جوتنی پر مارنا - (۱ - محاورہ) ذلیل یا حقیر سمجھنا۔

جوتنی خورا - (۱ - صفت) وہ شخص جو مار پیٹ سے راضی رہے۔

جوتنی سے - (۱) جوتنی کی ٹوک سے۔ بلتے کچھ پرواہ نہیں۔

جوتنی کاری - (۱) مش، مار پیٹ جوتنیوں سے مارنا۔

جوتنی کو عرض پڑی ہے - (۱ - محاورہ) یہ سمجھنے کے لیے کہ انہیں یہ کام کرنے کی ضرورت یا پرواہ ہی نہیں۔

جوتنی کی ٹوک پر مارنا - (۱ - محاورہ) [۱] ٹھکرانا (۲) ذلیل سمجھنا۔ حقیر جاننا۔ (۳) خاطر میں نہ لانا۔ پرواہ نہ کرنا (۴) نفرت کا اظہار۔

جوتنی کے برابر نہ سمجھنا - (۱ - محاورہ) ذرا بھی خاطر میں نہ لانا۔

جوتنی کے تیلے سے ناک کاٹ لینا - (۱ - محاورہ) بہت ذلیل کرنا۔

جوتنی اٹھانا - (۱ - محاورہ) اطاعت کرنا۔ تابعداری کرنا۔

جوتنے سے خبر لینا - (۱ - محاورہ) جوتنوں سے مارنا۔ کفش کاری کرنا۔

جوتنے کاری - (۱ - مش) جوتنوں سے مارنا۔

جوتنے کا یار - (۱ - صفت) جس سے ٹانٹ ڈپٹ کر کام لیا جائے۔

جوتنیاں اٹھانا - (۱) کسی بزرگ یا کامل کی خدمت کرنا (۲) ذلیس خدمت کرنا۔

جوتنیاں بٹیل میں لوبانا مارنا - (۱) بھاگ جانا۔ کھسک جانا۔ (۲) دیک کر نکل جانا۔

جوتنیاں توڑنا - (۱ - محاورہ) دودھ سوپ یا کوشش کرنا۔

جوتنیاں چینچناتے پھرنا - (۱ - محاورہ) آوارہ پھرنا (۲) مارے مارے پھرنا (۳) ذلیل و رسوا ہونے پھرنا۔

جوتنیاں سر پر رکھنا - (۱ - محاورہ) [۱] عقیدت کا اظہار کرنا (۲) احترام کرنا (۳) خوشامد کرنا۔

جوتنیاں سیدھی کرنا - (۱ - محاورہ) [۱] بزرگوں یا بڑوں کی خدمت

کرنا (۲) تعظیم بجالانا۔

جوتنیاں سی گانٹھنا - (۱ - محاورہ) بہت بڑی سلاخی کرنا۔ موٹا موٹا سی دینا۔

جوتنیاں کیا سو نہیں خان سامال بن گئے۔ (مش) [۱] ادنیٰ اسی لغات سے مفرد ہو گئے۔

جوتنیاں کھانا - (۱ - محاورہ) [۱] جوتیوں سے پینا (۲) طے سنا۔ بڑا بھلا سنا۔ ذلیل و خوار ہونا۔

جوتنیاں گانٹھنا - (۱ - محاورہ) [۱] جوتیوں کی مرمت کرنا۔ (۲) ذلت کا کام کرنا۔

جوتنیاں مارنا - (۱ - محاورہ) [۱] طے دینا۔ ذلیل کرنا (۲) جوتیوں کی مار مارنا۔

جوتنیوں سمیت آنکھوں میں (گھسنا) بلیٹھنا - (۱ - محاورہ) [۱] ناپاؤں انکار بات کی دھٹائی سے انکار کرنے جانا (۲) خواہ مخواہ جھلساتے جانا (۳) آنکھوں میں دھول چھونکنا۔

جوتنیوں سے لگا ہونا - (۱ - محاورہ) [۱] مطیع اور فرمانبردار ہونا (۲) ہر وقت ساتھ ہونا۔

جوتنیوں کا صدقہ - (۱ - محاورہ) کسی کی توجہ سے کام ہونے پر اس وقت کہتے ہیں جب کسی کا احسان ماننے کا اظہار کیا جائے۔ اس وقت بارے میں کہیں تو اپنی بڑائی کرنی مقصود ہوتی ہے۔

جوتنیوں میں بلیٹھنا - (۱) سب سے خراب جگہ ملنا (۲) محفل میں اودنے تیرن سمجھا جانا۔

جوتنیوں میں ڈال بٹھنا - (۱ - محاورہ) [۱] پھوٹ پڑنا (۲) لڑائی جھگڑا ہونا۔

جوتنیوں میں ڈال دینا - (۱ - محاورہ) ذلیل کرنا۔ حقیر کرنا۔ بے عزت کرنا۔ قدر گھٹانا۔

جوتھ - (واو جمول) [جھ - ۱ - مذ] [۱] جوڑا۔ جھنت (۲) ہلار کا۔ ہم سر۔ (۳) ساتھی۔ رفیق (۴) ہم شکل (۵) بیلیوں کی جوڑی جو ہل میں جوتنی جاتی ہے۔

جوتھ باندھنا [۱] ہم عمر یا ہم قدم سے جوڑا لگانا (۲) جوڑا بنانا۔ بلانا۔

جوتھنا - (جو - ٹھا) [جھ - ۱ - صفت] [۱] پس خوردہ۔ مستعل۔ بچا ہوا کھانا۔

جوتھیا - (جو - ٹھا) [یا] [جھ - ۱ - صفت] [۱] مدگار (۲) رہٹ ہلکنے والا۔

جوتھو - (جو - جو) [آر - ۱ - مذ] [۱] ایک فرضی نام جس سے بچوں کو ڈراتے ہیں (بچپا؟ ہاؤ؟)

جوتھن - (تی - مش) [لڑائی - جنگ۔

جوتھنیر (جو - جھ - نا) (واو جمول) [جھ - مص] [۱] لڑنا۔ جنگ کرنا (۲) قتل کرنا۔

جوتھو - [جھ - ۱ - مذ] [جھنتش - سخاوت - فرخ دلی - کرم۔

جوتھوت - [جھ - ۱ - مش] [۱] عقل کی تیزی۔ ذکاوت۔ ذہانت (۲) لیاننت۔ گمن۔

جوڑو سجا - (ع - ا - مٹ) بخشش - سخاوت۔
 جوڑو سجا - (جو - دھا - واؤ جمول) [ع - ا - مذ] (۱) بہادر سپاہی (۲) شجاع آدمی۔
 جوڑویشل - (Judicial) - (جو - ڈی - شلن) [انگ - صف] اعلیٰ متعلق بہ عدالت - عدالت کا۔
 جوڑویشل اختیارات - (انگ - ا - صف) دیوانی و فوج داری اختیارات۔
 جوڑویشل کارروائی - (انگ - ا - مٹ) دیوانی و فوج داری مقدمات کی کارروائی۔
 جوڑو (ع - ا - ع) مذ ظلم - ستم - سختی - زبردستی - بے رحمی - جفا۔
 جوڑو استاویہ زمرہ پرکیر (مٹ - ف) استاد کی سختی باپ کے پیار سے اچھی ہے۔ کیونکہ اس سے بچ سیکھتا ہے۔
 جوڑو - (جو - ڈو - پھلا واؤ جمول) [ع - ا - مٹ] (۱) بیوی - گھروالی عورت۔ رفیقہ - حیات - زوجہ - استری۔
 جوڑو ٹٹولے پھینٹ اور مال ٹٹولے پیٹ - (مٹ - ف) بیوی کو شوہر کی گامٹھ کی نگرہ ہوتی ہے جب کہ مال کو یہ نگرہ ہوتی ہے کہ میرا بیٹا جو کہ تو نہیں ہے۔ مطلب - بیوی کی محبت غرض کی ہوتی ہے اور مال کی بے غرض۔
 جوڑو چلتی میاں مزدور - (مٹ - ف) میاں غریب ہے مگر بیوی بنی ٹٹولی رہتی ہے۔
 جوڑو خصم کی لڑائی - دو دھ کی سی ملانی - میاں بیوی کی ٹٹکر رنجی بھی مزادیتی ہے۔
 جوڑو کا بھائی (۱) سلا (۲) ایک قسم کی گالی۔
 جوڑو کا غلام - جوڑو کا مزدور - جوڑو کا مرید - (مٹ - صف) وہ شخص جو بیوی کا ہر کھنا مانے۔
 جوڑو کا مرنا گھر کا خرابہ - (ع - ا - محاورہ) بیوی کے مرجانے سے گھر اچڑھاتا ہے۔
 جوڑو نہ جانتا اللہ میاں سے ناتا - (مٹ - ف) ایسا شخص جس نے شادی نہ کی ہو۔ جس کا آگے پیچھے کوئی نہ ہو۔
 جوڑو - [ع - ا - مذ] مذکر و مؤنث [ع - و - جغت] (۲) برابر کا - ہم پلہ بنانا۔ (۳) ساتھی (۴) ہم شکل (۵) گہرہ (۶) سلسلہ - بلنا - ستاروں کا میل - قرآن (۷) میزان - کل تعداد و علم حساب کا جمع کا قاعدہ (۸) فریب - چیل - جمل سازی (۹) تہمت - بہتان (۱۰) ثابت (منفی کی ضد) (۱۱) ہم رنگ اور ہم سلسلہ برتن (۱۲) مرشد خزانوں کی جماعت (۱۳) ایک قسم کی جھتی (۱۴) طاوت - آمیزش (۱۵) من گھڑت واقعہ (۱۶) ایک قسم کے چھتے (۱۷) وہ جگہ جہاں دو ٹکڑے ملیں۔ پونہ - سلائی - ٹانگا - جمال (۱۸) پور - پوری - حضور (۱۹) اعضا کے ملنے کی جگہ (۲۰) ایک پہلہ (۲۱) پہلوان کا مقابل۔
 جوڑو بانڈھنا - (ع - ا - محاورہ) (۱) کشتی کے لیے دو برابر کے پہلوان مقرر کرنا (۲) کسی کام پر دو آدمی مقرر کرنا۔

جوڑو بٹھانا - (ع - ا - محاورہ) (۱) چول بٹھانا - جوڑو ملانا (۲) ٹوٹی ہوئی ہڈی کو اس کی جگہ پر بٹھانا (۳) حساب کی میزان درست کرنا۔
 جوڑو بند - (ف - مڈ) بندھن - بندش - عضو۔
 جوڑو ٹوڑ - (ع - ا - مذ) (۱) ساز باز - داؤں - بیچ - سازش (۲) بہتان۔
 بے بنیاد بات (۳) ترکیب - تدبیر۔
 جوڑو توڑ کرنا - (ع - ا - محاورہ) (۱) ساز باز کرنا (۲) تدبیر کرنا جو جوائی کا روٹی کرنا (۳) فریب کرنا (۴) کسی خاص مقصد سے کوئی سازش کرنا۔
 جوڑو جوڑو - ہر ایک جوڑو - ہر ایک عضو - بند بند - تمام بدن۔
 جوڑو جوڑو شرارت بھری ہونا - (ع - ا - محاورہ) بہت زیادہ تشریح ہونا۔
 جوڑو جوڑو کے مرجانا - (ع - ا - محاورہ) کجوسی سے روپیہ جمع کرنا گمراہ سے فائدے اٹھانے بیچر جانا۔
 جوڑو جوڑو مرجائیں گے مال جوائی کھائیں گے جو جوائی نہ ہونگے تو خالصے لگ جائیں گے۔ کجوس کا مال ضائع ہی جاتا ہے۔
 جوڑو جوڑو میں شرارت بھری ہے - (ع - ا - مٹ) بہت تشریح ہے۔
 جوڑو چلنا - (ع - ا - مٹ) (۱) داؤں بیچ کرنا - چالیں چلنا (۲) تدبیر کارگر ہونا۔
 جوڑو دار - (ف - مڈ) جڑا ہوا یا پیوند لگا ہوا۔ جس میں جوڑو ہو۔
 جوڑو کا - (ع - ا - صف) برابر کا - مقابلہ کا۔
 جوڑو کا ٹوڑ - (ع - ا - مٹ) (۱) سازش کو توڑنے کی تدبیر۔
 جوڑو کو جوڑو ملنا - جیسے کو تپسا ملنا۔
 جوڑو کا ٹھننا - (ع - ا - محاورہ) چالانی سے کام لینا۔
 جوڑو گرتی - (ع - ا - صف) ہم سر - ہم مرتبہ - برابر (ق)۔
 جوڑو گرتیان - (ع - ا - صف) بہت سے ساتھی - (ق)۔
 جوڑو لگانا - جوڑو لگانا - (ع - ا - محاورہ) (۱) پیوند لگانا - جوڑو لگانا (۲) ٹانگا جانا (۳) میزان لگانا - ٹول لگانا (۴) جوڑو لگانا - جوڑو بانڈھنا۔
 جوڑو ملنا - (ع - ا - محاورہ) برابر کا ہونا (۲) پیوند مل جانا (۳) ٹانگ ملنا۔
 جوڑو - (جو - ٹرا) واؤ جمول [ع - ا - مذ] (۱) ایک سی دو چیزیں - جفت (۲) پرندوں میں مراد مادہ (۳) دانسوں میں) میاں بیوی (۴) ساتھی - رفیق - دوست (۵) مقابل کا آدمی (۶) پوری پوشاک (۷) دونوں جہتے (۸) وہ پوشاک جو دو لہا یا دو لہن کو بیٹھی جاتی ہے (۹) ہم کیمیائی اصطلاح میں) کھوٹ لی ہوئی وحاشات (۱۰) [صف] دوہرا - ثانی۔
 جوڑو بڑھانا - (ع - ا - محاورہ) پوشاک آوار کر رکھنا۔
 جوڑو (جوڑی) بننا ہے - میاں بیوی یا دو دوستوں کو یک جا دیکھ کر وہ دعا دی جاتی ہے۔ یعنی دونوں سلامت رہیں۔
 جوڑو بٹھانا (۱) پوشاک تیار کرنا یا جو تیاں یا جوڑیاں بنانا (۲) کھوٹی چاندی یا کھوٹا سونا بنانا۔
 جوڑو لگانا - نر مادہ کو ہلانا۔
 جوڑو - (جو - ٹرا) [ع - ا - مذ] (۱) سر کے بالوں کی وہ گانٹھ جو عورتیں اور سادھو وغیرہ گدی پر دے لیتے ہیں (۲) پرند کی لکٹی (۳) بی جی ہوتی

رستی جو برتنوں کے نیچے گھیرے کی شکل میں رکھی جاتی ہے۔
 اینڈری -
 جوڑا باندھنا - (۱- محاورہ) بالوں کو اکٹھا کر کے سر کے پیچھے گره دے لینا۔
 جوڑا کھولنا - (۱- محاورہ) بالوں کی گره جو گدھی پر باندھی گئی ہو کھول دینا۔
 جوڑنا - (جوڑ - نا) [ھ - مصل] ملانا۔ گاتھنا۔ پیوند لگانا۔ سیننا۔ چکانا۔
 (۲) جمع کرنا (۳) میزان دینا (۴) شمار کرنا۔ حساب لگانا۔ (۵) پس انداز کرنا (۶) تصنیف کرنا۔ شعر کرنا (۷) جوڑنا۔ ساز ڈالنا (۸) ڈاک ادا یا جگانا۔ (۹) بار بار گاتھنا (۱۰) گره لگانا (۱۱) جتنھا بنانا۔ گره بند کرنا (۱۲) شامل کرنا (۱۳) لگانا۔ دھرننا (۱۴) ٹوٹی ہوئی ڈھی باندھنا۔ (۱۵) دلاسا دینا۔
 جوڑواں - (جوڑ - واں) [ھ - ا] مذ [دو بچے جو اکٹھے پیدا ہوں۔ نواں (۲) ہم ترتیب۔ ہمسر (رق)]
 جوڑی - (جو - ٹی) [ھ - ا] مذ [برابر کے دو شخص یا چیزیں (۲) دو گھوڑوں کی گاڑی۔ وہ جو میرے جوڑے کے ساتھ بجائے جلتے ہیں (۳) طبلے کی جوڑی۔
 جوڑی دار - (ا- ت - مذ) [د - و] دو ایسے آدمی جو کسی کام کو مل کر کرتے ہوں۔
 جوڑی والا - (ا - مذ) طوائفوں کے جڑے میں طبلہ بجانے والا۔
 جوڑی بانگنا - (۱- محاورہ) (۱) دو گھوڑوں یا بیلیوں کی گاڑی پھلانا (۲) (سزاخا) دو بیویوں کا خاوند بنانا۔
 جوڑی بانانا - (۱- محاورہ) گمراہ بنانا۔
 جوڑ - [ع - ا] مذ [(۱) اخروٹ (۲) ناریل (۳) جانتل۔
 جوڑا - [ع - ا] مذ [سیرا آسمانی بیج جو دو جڑواں لڑکوں کی شکل کا ہے۔
 جوڑوس - (Juice)] - [ا - نک - ا] مذ [آر۔ رس۔ عرق۔ افسردہ۔
 جوڑی [ق - ا] مذ [جوشی
 جوش - [ت - ا] مذ [(۱) اہال۔ کھد بدارہٹ (۲) جیجان۔ جذبات کبے قابو ہونا۔ (۳) دلولہ۔ لہر۔ موج (۴) حرارت۔ تیزی (۵) زیادتی۔ کثرت۔ زور (۶) مستی۔ شہوت۔ (۷) غصہ (۸) تعصب (۹) سرگرمی شوق (۱۰) طبعانی۔
 جوش آنا - (۱- محاورہ) (۱) اہال آنا (۲) غصہ آنا (۳) لہر آنا یا اٹھنا۔ دلولہ پیدا ہونا۔ متفرق ہونا۔
 جوش جوانی - (ت - ا - مذ) جوانی کا دلولہ یا زور۔
 جوش جنوں - (ت - ا - صفت) دیوانگی کا زور۔
 جوش خون - (ت - ا - مذ) [باپ ماں بھائی بہن یا رشتہ داروں کی محبت (۲) خون کی زیادتی۔
 جوش دہن - (ت - ا - مذ) منہ آنا۔ منہ کے اندر چھاپے پڑنا۔
 جوش دینا - اہال دینا۔ کھولانا۔ اٹھانا۔

جوش کھانا، مارنا - (۱- محاورہ) اٹھنا۔ کھولنا (۲) زیادتی ہونا۔
 جوش میں آنا - (۱) اٹھنا۔ کھد ہری آنا (۲) چٹھا یا طبعانی پر آنا (۳) غصے میں آنا۔ بھڑکنا (۴) سوچ جانا (۵) لہریں مارنا (۶) دلولہ یا شوق پیدا ہونا۔
 جوش میں لانا - (۱- محاورہ) (۱) غصہ دلانا، بھڑکانا، اٹھانا۔ برا لگھتے کرنا۔
 جوش وغروش - (ت - ا - مذ) (۱) جیجان (۲) بہت زیادہ غصہ (۳) غل شور۔
 جوشنا ندرہ - (جو - شان - ذہ) [ت - ا] مذ [ایک مرکب جوش دی ہوئی دوائی جو نزلہ دور کرنے کے لیے دی جاتی ہے۔ کارٹھا۔
 جوشش - (جو - شش) [ت - ا] صفت [دیکھیے جوش۔
 جوشن - (جو - شن) [ت - ا] مذ [(۱) زورہ۔ (۲) بجز (۳) بازو کا ایک زیور۔
 جوشخ - [ع - ا] صفت [بھوک۔ گرنگی۔
 جوع الارض - (ع - ا] صفت [زمین کی ہوس۔ زیادہ سے زیادہ مکھ اپنے قبضے میں رکھنے کی ہوس۔
 جوع البقر - (گائے جیسی بھوک) ایک بیماری جس میں بے ضرورت بہت زیادہ بھوک لگتی ہے اور کھانے کے باوجود بھوک مٹتی نہیں ہے۔
 جوع الکلب - (کتنے جیسی بھوک) زیادہ کھانے کی بیماری۔ پیٹو۔
 جوع - [ع - ا] مذ [(۱) سپٹ۔ شکو (۲) اندرونی غلارہ۔ کھولنا (۳) برہمی کا زخم جو سپٹ کے اندر لگے دم، غار، گڑھا۔
 جوع - [ت - ا] صفت [(۱) آدمیوں کا گروہ۔ انبوہ۔ بھیڑ (۲) پرنسول (۳) پڑا۔ جھنڈ۔ جھنڈ۔ غول۔
 جوع بوق - جوع درجوع - گروہ کے گروہ۔ پرے کے پرے۔
 جوکر - (Joker) - جو - کر) [ا - نک - ا] مذ [(۱) مسخرہ۔ ہنسول۔ دل لگی باز (۲) ناش کا جوکر (۳) پٹا جو زائد جڑنا ہے۔
 جوکھ - [ھ - ا] صفت [(۱) پرکھ۔ جاج - انداز (دونا یا پاندی) کسوٹی پر لگا کر دیکھنا (۲) تول۔ وزن۔
 جوکھ - (جو - کھ) [ھ - ا] صفت [(۱) مشکل کام (۲) خطرہ۔ اندیشہ۔ ڈر (۳) افسردگی (۴) نصیب (۵) مصیبت۔
 جوکھ میں پڑنا - (۱- محاورہ) خطرے میں پڑنا۔ مصیبت میں پڑنا۔
 جوکھنا - (جوکھ - نا) [ھ - مصل] [تولنا۔ وزن کرنا (۲) جانچنا۔ آزما کر دیکھنا۔ کسنا۔
 جوکھوں - (جو - کھوں) [ھ - ا] صفت [نقصان (۲) مشکل کام۔ مصیبت۔
 جوکھوں اٹھانا - (ہ - محاورہ) نقصان برداشت کرنا۔ خسار اٹھانا۔
 جوکھوں کا کام - (ا - ہ - مذ) نقصان یا خطرے کا کام (۲) دیر کی کام۔
 جوکھوں میں پڑنا - (۱- محاورہ) (۱) خطرے میں پڑنا (۲) اپنا نقصان کرنا۔
 جوکھوں میں ٹوٹنا - (۱- محاورہ) (۱) آفت میں پھنسنا۔ نقصان کے کام میں الجھنا۔
 جوگ - [ھ - ا] مذ [(۱) موقع محل صحیح وقت۔ نیک ساعت (۲) جاند کی منزلیں (جو ۲۴ ہیں) (۳) ستاروں کا طاب۔ قرآن (۴) تعلق جو۔ پیڑنگی۔ ملانا (۵) جوڑا ڈالنا۔ جوڑنا (۶) ساتھ لگنا۔ اتحاد (۸) طریقہ۔

جولائی - (جو۔ لائ) [ع۔ ۱۰۔ مذ] (۱) کو دیکھنا (۲) گھوڑے کی دوڑ یا چکر کھانا (۳) کاوا دینا (۴) گھوڑے کو کھانا چکر دینا (۵) حرکت۔ گردن۔
جولائی کا - (۱) گھوڑوں کا میدان (۲) گھوڑے کھانے یا چکر دینے کی جگہ
جولائی - (جو۔ لائی) [ف۔ ۱۔ مثن] (۱) گھوڑے کی دوڑ (۲) طبیعت کی روانی۔ تیز فہمی (۳) رفتار کی تیزی۔ پھرتی۔ چستی۔

جولائیوں پر آنا - (۱) محاورہ (۲) تیزی یا جوش میں آنا۔ ترنگ میں آنا۔
 جولائیوں پر رہنا - (۱) محاورہ (۲) نل شور یا پھل کود میں مصروف رہنا۔
 (۳) جوش میں بھرے رہنا۔

جولائی (July) - (جو۔ لائی) [انگ۔ ۱۔ مذ] انگریزی سال کا ساتواں مہینہ۔ ماہ جولائی۔

جوگ - (جو۔ گ) [دق۔ جب تک۔] (۱) جب تک۔
جوگ - (جو۔ گ) [دق۔ جب تک۔] (۱) انگریزی سال کا چھٹا مہینہ۔
 ماہ جون۔

جون - (جو۔ ن) [مونسٹ۔ ۱۔ مونسٹ] (۱) مونسٹ۔ صورت۔ بھیس (۲) جنم۔ پیدائش۔ ولادت۔ (۳) زمانہ۔ وقت۔ عرصہ۔

جون بدلنا، پلٹنا - (۱) محاورہ (۲) ظاہری شکل تبدیل کرنا (۳) ہندوؤں کے عقیدے میں انسان کا ایک قالب سے دوسرے قالب میں جانا (۴) صورت بدلنا۔ حالت بدلنا (۵) غیر معمولی طور پر مٹنا یا بولنا جو جانا (۶) غیر معمولی ترقی یا تیز رفتاری سے جانا۔

جون پوری کرنا - (۱) محاورہ (۲) دن پورے کرنا۔ زندگی گزارنا۔
جون - (جو۔ ن) [مثن] (۱) وہ کپڑے جو بالوں یا کپڑوں میں میل سے پیدا ہو جاتے ہیں۔

جون کی چال - (۱) مثن (۲) نہایت آہستہ آہستہ یا مست چال۔
جونیں پڑنا - (مسن۔ مرکب) سر کے بالوں یا پٹروں وغیرہ میں جوئیں ہو جانا۔

جونیں دکھانا، نکھلوانا۔ کسی دوسرے سے سر کے بالوں کی جوئیں پڑنا۔
جونیں (دیکھنا) نکھلانا۔ کسی کے سر کی جوئیں چن چن کر مارنا۔
جون - (جو۔ ن) [مثن] (۱) جیسے۔ مانند۔ مثل۔ زبان۔

جون تول - (۱) جس طرح بھی ہو سکے، یا ہو سکے۔ کسی نہ کسی طرح۔ بہ صورت (۲) نہایت مشکل سے۔ بہ ہزار وقت۔

جونوں کر کے (۱) کسی نہ کسی طرح سے۔ (۲) بڑی مشکل سے۔
جونوں - (۱) جس قدر جہاں تک۔ جب تک (۲) جیسے جیسے۔
جونوں چڑھنا، مٹا دینا، اٹنی چوڑھ چھوٹی۔ (۱) مٹل، چھوٹے دل کا آدمی (۲) اسی پر تواسے آنا ہی اور زیادہ بیکل بن جانا ہے۔
جونوں کھلی بھینکے تولوں بھارتی ہو۔ (۱) مٹل، زمانے کے نشیب و فراز انسان کو تجربہ کار بنا دیتے ہیں۔

جونوں کا تول - (۱) تولوں کی تول۔ دیکھنے کا دیباہی۔ وہ کا وہ سی۔ جیسا کہ پہلے تھا ویسا ہی۔ سابقہ یا اصلی حالت پر۔ (۲) پورا۔ تمام۔ کامل۔
جونوں تول رکھنا۔ جس حالت میں ہو اسی حالت میں رکھنا۔ احتیاط

فریور (۱) موزوں ہونا۔ مناسبت رکھنا (۲) ٹھہرنا۔ پھل (۱) تیرکمان میں جوڑنا (۲) سمت (۱۳) دائرے کے ان بہت سے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا جو منظر البرج سے ساپے ملتے ہیں (۱۴) ریاضت (۱۵) کفارہ (۱۶) ریاضی میں، میزان۔ (۱۷) وہ شخص جس کے نام کی ہنڈی کی جائے (۱۸) دوئی (۱۹) ایک سوئی (۲۰) صفت [قابل۔ لائق (۲۱) مناسب، موافق (۲۲) دوسرے، ذریعے سے۔

جوگ آسن - (جو۔ گ) [مثن] (۱) جوگ کے لیے بیٹھنے کا طریقہ۔
جوگ اگیاس - (جو۔ گ) [مثن] (۱) جوگیوں کا طریقہ۔

جوگ سادھنا - (جو۔ گ) [مثن] (۱) جوگی بنانا (۲) جس دم کی مشق کرنا۔ (۳) ایک چیز پر خیال جمانے کی کوشش کرنا۔

جوگ لینا - (جو۔ گ) [مثن] (۱) جوگی بننا۔ فقیری لینا۔ ترک دینا کرنا۔
جوگا - (جو۔ گ) [مثن] (۱) لائق۔ قابل (۲) موافق۔ مناسب۔ موزوں (۳) برص۔ بروقت (۴) [مثن] ایوں کا فضلہ جو گھولنے کے بعد نکلتا ہے۔

جوگن - (جو۔ گن) [مثن] (۱) وہ عورت جو ترک دینا کر کے فقیری اختیار کر لے (۲) جوگی کی تائید۔

جوگنی - (جو۔ گنی) [مثن] (۱) جھوٹی (۲) ہندوؤں کی درگا دیوی کی ۶۴ کھیلاں (۳) جوگ یا جوگ جاننے والی عورت (۴) جا دوگنی۔ ساحرہ۔

جوگی - (جو۔ گی) [مثن] (۱) ہندو فقیر (۲) چھاری (۳) جا دوگر۔ شعبہ باز۔
جوگی نھنا سوا کھڑ گیا آسن رہی بھنجیوت۔ (۱) جوگی نوچا گیا اب اس کے بیٹھے کی جگہ آسن اپر رکھ رہ گئی ہے۔ (اصل چیز روح) جاتی رہی راہ باقی رہ گئی۔

جوگی جگت جانے نہیں، کپڑے رنگے نوکیا ہوا۔ (۱) مٹل، جوگی کی بائیں (۲) جانتے نہیں صرف کپڑے جوگی رنگے جیسے ہیں۔

جوگی کچھ سے نہیں ظاہری وضع سے کیا ہوگا۔
جوگی جوگی لڑیوں کپڑوں کا نقصان۔ (۱) مٹل، بڑے آدمی لڑیوں تو چھوٹوں کا نقصان ہوتا ہے۔

جوگی کارٹا کھیلے کا تو ساپ سے۔ (۱) مٹل، سر کوئی اپنی تربیت کے مطابق کام کرتا ہے۔

جوگی کس کے مہنت۔ (۱) مٹل، جن لوگوں کا کوئی ٹھکانہ نہ ہو یا جن کو کسی سے تعلق یا وابستگی نہ ہو وہ کسی کے دوست نہیں بنتے۔

جوگی کی بہت کیا۔ (۱) مٹل، جوگی کی دوستی کا کوئی اعتبار نہیں۔
جوگی ہو جانا۔ (۱) محاورہ (۲) جوگ لے لینا۔ فقیری لے لینا۔

جوگی - (جو۔ گ) [مثن] (۱) گیر دا رنگ (۲) ایک رنگی (۳) ایک قسم کا کبوتر (۴) ایک قسم کی قمری۔

جول - (جو۔ ل) [مثن] (۱) لائق۔ قابل (۲) موافق۔ مناسب۔ موزوں (۳) برص۔ بروقت (۴) [مثن] ایوں کا فضلہ جو گھولنے کے بعد نکلتا ہے۔

جول - (جو۔ ل) [مثن] (۱) لائق۔ قابل (۲) موافق۔ مناسب۔ موزوں (۳) برص۔ بروقت (۴) [مثن] ایوں کا فضلہ جو گھولنے کے بعد نکلتا ہے۔

جول - (جو۔ ل) [مثن] (۱) لائق۔ قابل (۲) موافق۔ مناسب۔ موزوں (۳) برص۔ بروقت (۴) [مثن] ایوں کا فضلہ جو گھولنے کے بعد نکلتا ہے۔

جول - (جو۔ ل) [مثن] (۱) لائق۔ قابل (۲) موافق۔ مناسب۔ موزوں (۳) برص۔ بروقت (۴) [مثن] ایوں کا فضلہ جو گھولنے کے بعد نکلتا ہے۔

جول - (جو۔ ل) [مثن] (۱) لائق۔ قابل (۲) موافق۔ مناسب۔ موزوں (۳) برص۔ بروقت (۴) [مثن] ایوں کا فضلہ جو گھولنے کے بعد نکلتا ہے۔

باحفاظت سے منبھال کر رکھنا۔
جھولنے کے ڈرسے گڈڑی نہیں پھینکی جاتی۔ (امثال معمولی نفعان کے ڈرسے زیادہ نقصان نہیں برداشت کیا جا سکتا۔
جھول سی۔ (جھونجی) جیسے ہی۔ جس وقت۔ اسی وقت۔ فوراً۔ معاً
جھونا۔ جھوننا۔ (جھونا۔ جھوننا) (۲۵-۱۔ ۱۔ ۱) [مشت] (۱۱) دعوت۔ ضیافت (۲) شادی بیاہ (۳) زمین جو بیج ڈالنے کے لیے تیار ہو۔
جھوننا۔ (جھوننا) (۳۰-۱۔ ۱۰) اندھا گھاس یا بان کا شٹھا جو برتن مانگنے کے کام آتا ہے (۲) مکڑیوں یا گھاس کا گھٹا باندھنے کے کام آنے والی گھاس کی تری۔
جھونا۔ [رق۔ مص] [دھونڈنا۔
جھون پور کا قاضی۔ (جھون) پوز۔ کا۔ (قاصی) [اُد۔ ۱۔ ۱] مدعا بیوقوف یا اتنی آدمی۔ جھون پور کا ایک نامی جراح مشہور تھا۔
جھون سا۔ (جھون سا) (۵۔ ۵) [ض۔ جھ۔ جو کوئی۔ جھنٹھ۔
جھونک۔ (جھونکوں) (۱۷-۱۔ ۱) [مشت] (۱۱) بانی کا وہ چار پانچ اچھ لہبا کیرٹا جسے فاسد خون نکلنے کے لیے آدمی کے جسم پر لگانے ہیں (۲) کوئی ایسا شخص جو کسی کے لیے باعث تباہی بن جائے۔
جھونک منگھریں لگنا۔ (۱-۱) [مجاوہ] [گھوس آدمی سے کام لینا۔
جھونک مانی میں رسے تو بھی لہو پیتی ہے۔ (۱-۱) [مشت] [جڑا آدمی کبھی برائی سے باز نہیں رہتا۔
جھونک ہونکے (پہنٹنا) [چھٹنا۔ (۱-۱) [مجاوہ] (۱۱) جھونک کی طرح چھٹنا۔ اس طرح چھٹنا کہ ٹھہرنا مشکل ہو جائے (۲) کسی کے پیچھے چڑھنا۔
جھونکیوں لگوانا۔ اپنے جسم سے جو کچھ چھڑا کر فاسد خون خارج کر دینا۔
جھوننی۔ (جھوننی) (۱۷-۱) [مشت] [تزاز کے پلٹوں کی رتی۔
جھوننیر۔ (Junior)۔ (جھون۔ ن۔) [یرا] [انگ۔ صفت] (۱۱) چھوٹا سا چھوٹی (۲) ادنیٰ (۲) عدسے یا مرتب میں دوسروں سے کم۔
جھورنا۔ [رق۔ مص] [روشن کرنا۔
جھوہر۔ (جھوہر) (۳-۱) [مشت] (۱۱) قیمتی پتھر (۲) خلاصہ۔ ٹب لہاب۔ عطر۔ سنت (۳) وہ چیز جو بذات خود قائم ہو (۲) [فت] [تلاور۔ یا فولاد کے نفوش جن سے ان کی خوبی یا عمدگی ظاہر ہوتی ہے۔ (۵) خاصیت۔ خوبی۔ گمن (۶) ہنر۔ کمال۔ لیاقت۔ استعداد (۷) بھید۔ لا۔ اصل حقیقت (۸) چملا کی۔ چوڑائی (۹) آئینے کی آب ذاب (۱۰) نفیس لکڑی کی رگیں (۱۱) [س] [خود کشی (۱۲) لڑتے لڑتے مارے جانے والا بچپن جب دشمن سے مغلوب ہونے لگے تھے تو بیوی بچوں کو ہلاک یا نذر آتش کر کے خود بھی ہلاک ہو جاتے تھے (۱۳) ایٹم۔ Atom۔ تقسیم نہ ہونے والا ذرہ۔
جھوہر آڑا نا۔ (۱-۱) [مجاوہ] کسی چیز کی خوبی کی نقل کرنا (۲) آگ پر رکھ کر کسی دوا کا سنت نکالنا۔
جھوہر وار۔ (فت۔ صفت) (۱۱) جس میں کوئی خاص خوبی ہو (۲) وہ تلاور جس میں ایک خاص قسم کے نفوش ہوں جو اھیل ہونے کا ثبوت

دیکھیں۔
جھوہر دکھانا۔ (۱-۱) [مجاوہ] (۱۱) ہنر یا بیانت یا فیصلت ظاہر کرنا (۲) شرافت کا مظاہرہ کرنا (۳) چالاکی یا عیاری سے کام لینا۔ کسی کا اپنا عیب یا مخصوص برائی ظاہر کرنا۔
جھوہر فرد۔ (ع۔ ۱-۱) [فت] (۱۱) مادے کا سب سے چھوٹا ٹکڑا (۲) زینیر موتی۔ وہ جو ہر جس کا نامی نہ ہو۔
جھوہر کرنا۔ (۱-۱) [مجاوہ] راجپوتوں کا جنگ میں اپنی بیوی بچوں کو ہلاک کر کے دشمن سے لڑتے ہوتے جان دے دینا۔
جھوہر گھٹنا۔ جھوہر کھل جانا۔ (۱-۱) [مجاوہ] (۱۱) خوبیاں یا ہنر یا قابلیت کا اظہار ہونا (۲) اصلیت یا بھلائی برائی معلوم ہو جانا (۳) (طنزاً) تالافتی ظاہر ہونا۔
جھوہر لطیف۔ (ع۔ ۱-۱) [فت] (۱۱) پاکیزہ جوہر (۲) ایسا نفیس مادہ جو انسانی آنکھ کو نظر نہ آسکے (۳) عقل۔
جھوہر نکالنا۔ (۱-۱) [مجاوہ] (۱۱) سنت نکالنا (۲) عیب و ہنر ظاہر کرنا۔
جھوہری۔ (جھو۔ ہری) (فت۔ ۱-۱) [مشت] (۱۱) جھواہارت کا سوداگر (۲) کسی چیز کی نوبی یا عیب کی پرکھ رکھنے والا (۳) [فت۔ صفت] [جوہر سے متعلق۔ ایسی۔ ایٹم کا۔
جھوہری توانائی۔ (ع۔ ۱-۱) [فت۔ ۱-۱) [مشت] (۱۱) دیکھیے ایٹمی طاقت۔
جھوہر۔ (جھو۔ ہر) (۱-۱) [مشت] (۱۱) بارانی تالاب۔ کچا تالاب۔ جھیل۔
جھوہر میں منہ دھو آؤ۔ (۱-۱) [مشت] (۱۱) یہ نرا د پوری نہ ہوگی۔
جھونسی۔ (جھونسی) (جھون۔ سی) (۱-۱) [مشت] (۱۱) چنبلی جیسے خوشبود دار پھول جو اس سے ذرا چھوئے ہوتے ہیں (۲) ایک قسم کی آتش بازی۔ (۳) ایک قسم کا کیرا جو کھیتی کو نقصان پہنچاتا ہے۔
جھوندہ۔ (جھون۔ ان۔) (۵) [فت۔ صفت] [دھونڈنے والا۔ تلاش کرنے والا، جو کسی کی کھوج میں ہو۔ منکاشی۔ کھوجی۔
جھوندہ یا بندہ۔ (مشت) [جھوندہ ہونا ہے وہ پالیتا ہے۔
جھونٹے۔ (جھون۔ ٹے) (جھون۔ ٹے) [فت۔ ۱-۱) [مشت] [اندی۔ نمر۔
جھونٹار۔ ایک ایسی بڑی نمر جس میں بہت سی نمریں آکر مل جاتی ہوں۔ پہاڑ کا دامن نمروں کا خطہ۔
جھونٹے شیر۔ (فت۔ ۱-۱) [مشت] وہ جو فریاد و کوکمن) نے اپنی محبوبہ شیریں کے لیے پہاڑ میں کھودی تھی۔ اس کے ڈرے بچوں کا دودھ شیریں کے محل کے ایک حوض میں پہنچتا تھا۔
جھونٹے ہتھیار لانا۔ مشکل یا ناممکن کام سرانجام دینا۔
جھونٹی۔ [رق۔ صفت] [نرالی۔ جدا جلیغہ۔
جھوٹا۔ (جھو۔ یا۔ جو۔ یاں) [فت۔ صفت] [دھونڈنے والا۔
جھوٹین۔ [فت۔ صفت] [جو کسی۔ جو سے بنی ہوئی۔

اپنے مقدور بھر جہاں تک یا جب تک اپنے حالات ساتھ دیں۔
جہاں تمہارا پسینہ گرے وہاں خون گرائیں۔ (۱- مثل) و فاداری اور
جاں نثاری کا اظہار کرنے کے لیے کہتے ہیں۔

جہاں نہاں - ہر جگہ - ہر کہیں - جگہ جگہ - ادھر ادھر -
جہاں چلے بھوکا وہاں پڑے سوکھا۔ (مثل) بد قسمت آدمی جہاں
کہیں بھی چلا جائے پریشان اور محروم رہتا ہے۔

جہاں حجام وہاں پروہنت - (۱- مثل) جو لوگ جن کے سر کھلے
ہیں وہ ہر جگہ ان کے ساتھ گئے رہتے ہیں۔ جہاں سردار وہاں سرد نگار۔

جہاں جہاں - جا بجا - جگہ جگہ - جس جس جگہ - جون جون سے مقام پر۔
جہاں چار بزمن ہوتے ہیں کھلتے دھکتے (بھی ہیں - مثل) جہاں
چند آدمی ہوتے ہیں وہاں تھلار ہو ہی جاتی ہے۔

جہاں دل وہاں باؤل (مثل) (۱) جہاں بہت سے لوگ (دل) ہوں
وہاں بادشہ بھی ہوتی ہے (۲) جہاں لوگوں کی بیٹھ ہو وہاں گرو و عباد
بہت ہوتا ہے۔

جہاں ڈولہا وہاں برات - (۱- مثل) بڑا آدمی یا مرکزی شخصیت کھنے
والا جس جگہ قیام کرے اس کے متعلقین بھی وہیں ڈولہا جاتے ہیں۔

جہاں دیکھے تو اپراٹ وہیں گاوسے ساری رات (مثل) مطلبی
آدمی جہاں فائدہ دیکھتا ہے وہیں بیٹھا رہتا ہے۔

جہاں دیکھی روٹی وہاں ٹھنڈی چوٹی - (مثل) فائدہ ہونے کی وجہ
کہ دولت یا بے عزتی برداشت کر لینا۔

جہاں راجہ مجھڑ لوٹا وہیں گھینیرے لوگ - (مثل) خوش اخلاقی
لوگوں کے رجوع ہونے کا باعث ہوتی ہے۔ بڑے لوگ اچھی طرح
پیش آئیں تو لوگ ان کے سامنے نہیں رہتے ہیں۔

جہاں ستیاناس وہاں سواستیاناس - (مثل) جہاں بربادی ہو
ہی گئی ہے تو اس کا کیا رو ناکہ خورڑی ہوئی یا بہت ہوئی۔

جہاں سوئی نہ جائے وہاں ٹوسلی گھیسڑنا - (مثل) سمجھوٹ بولنا جو
وہم و گمان میں نہ آسکے۔

جہاں بیٹنگ سمائیں چلے جاؤ - (مثل) جہاں پناہ ملے چلے جاؤ۔
دور ہو جاؤ۔

جہاں کا پیوسے پانی تمہاں کی بوسے بولی - (۱- مثل) احسان کرنے
والے کی حمایت ضروری ہوتی ہے۔

جہاں کا مڑوہ نہاں کی گور - جہاں کا مڑوہ وہیں گڑتا ہے (مثل)
جہاں کا جھگڑا ہوتا ہے وہیں ملے ہوتا ہے۔

جہاں کانسو وہاں بلی کا سانسو - (مثل) (۱) جہاں کسی چیز میں کاتبی
کی دھات لگی ہوگی جس پر بلی گر سکتی ہے وہاں بلی گرنے کا اندیشہ رہتا ہے۔

ضرور رہے گا - (۲) جہاں مال ہو وہیں چمدا ہے۔

جہاں کہیں - جس جگہ - جس مقام پر - جس مقام پر۔
جہاں کی نہاں - (۱) کہیں کی کہیں - بے جگہ (۲) اسی جگہ - وہیں اپنے
خاص مقام پر۔

ج - ۵

جہاٹ - (ج - مات) (ع - ۱ - مذ - مث) بہت کی جمع - ستیں - طرفین -
جھاو - (ج - ہاڑ) (ع - ۱ - مذکر) (۱) کوشش - جدوجہد (۲) دین کی حمایت
کے لیے ہتھیار اٹھانا۔

جھاوا صغیر - کافروں کے خلاف ہتھیار اٹھانا۔

جھاوا کبر - نفس کو مارنا - ریاضت۔

جھاوا بالسیف - (ع - ۱ - مذ) حق کی حمایت میں ہتھیاروں سے جنگ
کرنے۔

جھاوا بالقلم - (ع - ۱ - مذ) حق کی حمایت میں قلم اٹھانا - باطل کے
خلاف ممکنہ بین لکھنا۔

جھاڑ - (ج - ہاڑ) (ف - ۱ - مذ) (۱) بہت بڑی کشتی - اسباب تجارت لادنے
اور انسانوں کے سوار ہو کر بحری سفر کرنے کی بہت بڑی ناؤ - (۲)
(صفت) بہت بڑا - بہت وسیع - فراخ - کشادہ۔

جھاڑ رانی - (ف - ۱ - مث) جھاڑ چلانے کا پیشہ۔

جھاڑ کا جھاڑ - (۱ - مذ) بہت بڑا - وسیع - فراخ - کشادہ۔

جھاڑ کا کٹوا - (۱ - مذ) وہ کو جو جھاڑ کے ساتھ ساتھ اڑتا رہتا ہے اور
سمندریں کہیں بیٹھنے کی جگہ نہ ملنے کی وجہ سے جھاڑ کے گرد منڈلاتا رہتا
ہے (۲) ایسا شخص ہے کہیں ایک جگہ کے سوا اور کہیں ٹھکانا نہ ملے۔

(۳) ایک آلہ جو کونے جیسا بد نما ہوتا ہے۔

جھاڑ کا لنگر انداز کرنا (ہمو نام) (مض - مرکب) جھاڑ کا کوننا یا ٹھنڈا۔

جھاڑ راں - (ج - ہاڑ زان) (ف - ۱ - مذ) جھاڑ چلانے والا - ملاح۔

جھاڑی - (ج - ہاڑی) (ف - ۱ - مذ) جو لوگ جھاڑ چلانے کے ذمہ دار
ہوں یا وہ لوگ جو جھاڑ میں بیٹھے ہوں۔

جھال - (ج - ہاڑ) (ع - ۱ - مذ) جاہل کی جمع - ان پرٹھ لوگ - اچھل۔

بے وقوف۔

جھالت - (ج - ہاڑ) (ف - ۱ - مث) (۱) بے علمی - نادانی - ناواقفیت
(۲) بے وقوفی - حماقت (۳) بے رحمی - سنگ دلی - کٹھور پن۔

جہاں - (ج - ہاڑ) (۱) حرمت شرط - اسم موصول (۱) جس جگہ - جس مقام
پر (۲) جس وقت - جس گھڑی۔

جہاں اور درخت نہیں وہاں از بند ہی پر وہاں ہے - (مثل)
جہاں بڑے نہیں ہوتے وہاں چھوٹے ہی بڑے سمجھے جاتے ہیں۔

جہاں پھول وہاں کاٹا - (مثل) (۱) جہاں آرام وہاں تکلیف بھی
ہوتی ہے۔ جہاں فائدہ ہو وہاں نقصان بھی ہوتا ہے۔

جہاں سانس کا پھینا وہیں کھٹا - (مثل) بے حیائی
اور غیر واجب بے تکلفی کی مذمت میں کہتے ہیں۔

جہاں تک - جب تک - جس حد تک - جتنا مقدور ہو۔
جہاں تک (ہستے) ہو سکے - جب تک یا جس حد تک ممکن ہو۔

جہاں سیاہ ہونا۔ (۱- محاورہ) رنج و غم کی شدت ہونا۔ مصیبتوں کی زیادتی سے دنیا سے بیزاری۔

جہاں کا پیکر۔ (۱- محاورہ) دنیا بھر میں پھرنا۔

جہاں گرد (گشت۔ نور و۔) (د- صفت) دنیا بھر میں پھرنے والا۔ ملک ملک گھومتے والا۔ سیاحت۔

جہاں گیر۔ (د- صفت) (۱) دنیا کو فتح کرنے والا (۲) ہند کے مغل بادشاہ اکبر کے بیٹے شہنشاہ نور الدین کا لقب۔

جہاں گیری۔ (د- مرث) (۱) باغیوں میں پیشہ کا ایک بڑا اونٹ (۲) لاکھ یا کالج کی چوڑی چوڑی جہاں کی ایک بادشاہی جاتی ہے (۳) حکومت۔ سلطنت۔

جہاں نما۔ (د- صفت) (۱) دنیا کو دکھانے والا۔ آئینہ۔ اونچا مینار۔ اونچا شاہی تختہ۔

جہاں تیاں۔ جہاں گشت۔ (د- صفت) ساری دنیا کی سیر کرنے والا (۲) ایک ولی کا لقب۔

جہمت۔ (د- صفت) (۱) مرث (۲) جمع۔ جہمت۔ جہمت۔ (۲) وجہ۔ سبب۔ باعث۔ جمع۔ جہمت۔

جہد۔ جہد۔ (د- صفت) (۱) مرث (۲) کوشش۔ سعی۔ دؤر و دھوپ۔ بنیم۔ اول نیز بفتح اول۔

جہد للبقا۔ (د- صفت) (۱) مرث (۲) کوشش۔ زندہ رہنے کے لئے کوشش۔

جہر۔ (د- صفت) (۱) مرث (۲) کوشش۔ زندہ رہنے کے لئے کوشش۔

جہنم۔ (د- صفت) (۱) مرث (۲) کوشش۔ زندہ رہنے کے لئے کوشش۔

جہنم۔ (د- صفت) (۱) مرث (۲) کوشش۔ زندہ رہنے کے لئے کوشش۔

جہنم۔ (د- صفت) (۱) مرث (۲) کوشش۔ زندہ رہنے کے لئے کوشش۔

جہنم۔ (د- صفت) (۱) مرث (۲) کوشش۔ زندہ رہنے کے لئے کوشش۔

جہنم۔ (د- صفت) (۱) مرث (۲) کوشش۔ زندہ رہنے کے لئے کوشش۔

جہنم۔ (د- صفت) (۱) مرث (۲) کوشش۔ زندہ رہنے کے لئے کوشش۔

جہنم۔ (د- صفت) (۱) مرث (۲) کوشش۔ زندہ رہنے کے لئے کوشش۔

جہنم۔ (د- صفت) (۱) مرث (۲) کوشش۔ زندہ رہنے کے لئے کوشش۔

جہنم۔ (د- صفت) (۱) مرث (۲) کوشش۔ زندہ رہنے کے لئے کوشش۔

جہاں گڑھوگا وہاں کھیاں بھی آئیں گی۔ (د- مرث) (۱) جہاں کھانے کو لے وہاں کھانے والے ضرور آئیں گے (۲) اپنی مرغوب چیز سے بھی ٹوٹ کر گرتے ہیں۔ (۳) کابل کے شاگرد دست۔

جہاں گل (ہوگا) ہے وہاں خار بھی (ہوگا) ہے۔ (د- مرث) (۱) مرث کے ساتھ تکلیف اور خوشی کے ساتھ رنج و گھوٹا ہے۔

جہاں گنج وہاں رنج۔ (د- مرث) (۱) مالدار لوگوں کو دولت کی وجہ سے تکلیف پہنچتی ہے۔

جہاں مرغ نہیں ہوتا وہاں صبح نہیں ہوگی جہاں ٹلا نہیں ہوگا وہاں سویرا نہ ہوگا۔ (د- مرث) (۱) کسی کے نہ ہونے سے دنیا کے کام بند نہیں ہوجاتے۔

جہاں نشیب (ہوتا ہے) ہوگا وہاں پانی (مرتا ہے) مرے گا۔ (د- مرث) (۱) مرث (۲) کوشش۔

جہاں نفس ہوتا ہے وہیں اعتراف کرتا ہے۔ (د- مرث) (۱) مرث (۲) کوشش۔

جہاں نشانے گھڑے دو دھکے ہونگے وہاں ایک گھڑا پانی کا کیا مانا جائے گا۔ (د- مرث) (۱) ایروں اور مالداروں میں غصہ بیوں کی کیا پریش۔

جہاں۔ جہاں۔ (د- صفت) (۱) مرث (۲) کوشش۔

جہاں آرا۔ (د- صفت) (۱) مرث (۲) کوشش۔

جہاں آفریں۔ جہاں کو پیدا کرنے والا۔ خدا سے تعالیٰ۔

جہاں آنکھوں میں اندھیر ہونا۔ (د- محاورہ) کچھ بھائی نہ دینا۔ سخت گھبراہٹ اور پریشانی ہونا۔

جہاں بانی۔ (د- صفت) (۱) مرث (۲) کوشش۔

جہاں بانی۔ (د- صفت) (۱) مرث (۲) کوشش۔

جہاں بانی۔ (د- صفت) (۱) مرث (۲) کوشش۔

جہاں بانی۔ (د- صفت) (۱) مرث (۲) کوشش۔

جہاں بانی۔ (د- صفت) (۱) مرث (۲) کوشش۔

جہاں بانی۔ (د- صفت) (۱) مرث (۲) کوشش۔

جہاں بانی۔ (د- صفت) (۱) مرث (۲) کوشش۔

جہاں بانی۔ (د- صفت) (۱) مرث (۲) کوشش۔

کی شادی میں ماں باپ کی طرف سے دیا جائے۔
 جھینڑ میں آگنا۔ (۱- محاورہ) لڑکی کو شادی پر ماں باپ کی طرف سے سامان
 اسباب بنا۔

جھ

جھاب - جھابا یا - (جھا با) [جھ - ۱ - مذ] (۱) نیل یا گھی رکھنے کا پڑے کا
 برتن (۲) نیل یا گھی ناپنے کا پیمبر برتن۔ پٹی (۳) چڑے کا گول
 نوان جس میں آٹا چھانٹنے یا رکھتے ہیں (۴) تنگ منہ کا دودھ کا
 برتن۔ بل ٹوٹی (۵) جھاڑ فائوس (۶) روٹیاں رکھنے کا خوراک۔
 جھابڑ - جھابڑ (جھا - بڑ) [جھ - ۱ - مرث] (۱) دلدلی زمین۔
 (۲) جو بڑ (۳) بڑے چرے والا شیر۔ (۴) قوی الجتہ۔
 جھا بڑ جھلا۔ (۱) صفت (۲) مذ (۱) ڈھیلا ڈھیلا ہونا۔ (۲) بد ہیئت آدمی۔
 جھاپا یا - (جھا - پا) [جھ - مرث] تنگ منہ کی لوکری۔
 جھا پڑ - (جھا - پڑ) [اڑ - ۱ - مذ] [مذکر] پتھر۔ طما پتھر۔
 جھا جھا - (جھا - جھا) [جھ - ۱ - مذ] [مذ] کا گچا جو جھنک سے تیار کیا جاتا ہے۔
 جھا جھڑ - (جھا - جھڑ) [جھ - ۱ - مذ] (۱) جھا جھ - مجیلا (۲) پاؤں کا ایک یو
 تو چین چین بولنا ہے، جھانجن۔
 جھارا - (جھا - را) [جھ - ۱ - مذ] (۱) پٹی چین ہونی بینگ (۲) گیوں پٹینے
 کا چھاج (۳) بگی بگی بارش۔ چھوار۔
 جھارنا - (جھا - رنا) [جھ - مرث] [جھاننا] پٹینا۔
 جھاری - (جھا - ری) [جھ - ۱ - مرث] [لمبی گردن کی مٹھری جو ٹوٹی دار
 بھی ہوتی ہے۔
 جھاڑ - (جھاڑ - نا) [جھ - ۱ - مذ] (۱) جھاڑی (۲) جھڑ پرنی کا مسکھا ہوا درخت (۳) فانوی
 (۴) ایک قسم کی آتش بازی (۵) پہنچ شانہ - مشعل - بانوں کا سلسلہ۔
 ڈینڈی (جھڑی (۶) درخت [جھ - ۱ - مرث] سب گیل۔
 جھاڑ بانی - (۱) مرث] حساب صاف کروینا۔ پوری ادائیگی۔ بالکل
 بے باقی۔
 جھاڑ بانڈرا - (۱) مذ - ق (۲) بچوں کا ایک کھیل جو وہ درختوں پر چڑھ کر
 کھینے ہیں۔ (ق)
 جھاڑ بانڈھنا - (۱) محاورہ (۲) لگانا بولے جانا۔ مسلسل کے جانا (۳) لگانا
 پینہ برستا۔
 جھاڑ بسا ما - (۱) محاورہ (۲) لڑائی یا جھگڑا مٹول لینا۔
 جھاڑ لٹے - (۱) مذ - بیل بولے۔
 جھاڑ پھوڑ دیکھنا - (۱) محاورہ (۲) بڑی تجربہ اور سرگرمی سے تلاش کرنا
 (۳) جانچ تول کرنا۔ آزمانا
 جھاڑ پونچھ - (۱) مرث] صفائی۔ جھاڑنا۔ پونچھنا۔
 جھاڑ پونچھ براب رکنا - (۱) محاورہ (۲) سب کھا اڑا دینا۔ سب خرچ کر ڈالنا۔

جھاڑ میاڑ - (۱) مذ] بات کا بنگٹھڑ۔ عین منور ہی بات۔ فضول بات۔
 جھاڑ چھوٹک - (۱) مرث] (۱) پڑھ کر چھوٹنے یا دم کرنے یا جا ڈھونڈنا
 کرنے کا عمل (۲) شہیدہ بازی (۳) مکاری۔ عیاری۔

جھاڑ جانا - (۱) محاورہ (۲) کھا جانا۔ چٹ کر جانا۔
 جھاڑ جھنک - (۱) اچھی طرح جھاڑنا۔ پوری طرح صفائی کرنا۔
 جھاڑ جھنڈ کاڑ - (۱) مذ] (۱) جھنڈ کے خار دار درخت اور جھاڑیاں۔ گھاس
 پھوس کوڑا کرکٹ (۲) شستہ خط۔

جھاڑ وینا - (۱) محاورہ (۲) منتر پڑھ کر چھوٹنا۔ (۳) صفائی کرنا۔ جھاڑو
 جھاڑو کرنا (۳) ماروینا (۴) ناراض ہونا۔ بولنے سے روک دینا۔
 عھتہ نکالنا۔

جھاڑ ڈالنا - (۱) محاورہ (۲) عھتہ اتارنا (۳) فہمائش کرنا۔ پھینکا کرنا (۴)
 وصول کر لینا۔ سارا برتن خالی کر دینا۔

جھاڑ سا - جھاڑ بسیا۔ جھاڑ جھنڈا لڑکی مانند۔ پھیلے ہوئے کانٹے دار درختوں
 اور جھاڑیوں وغیرہ کی طرح۔

جھاڑ کا ازار بند - (۱) مذ] ایک قسم کا ازار بند جس میں بڑے بڑے
 پھیندے ہوتے ہیں۔

جھاڑ کا کاشا - (۱) محاورہ (۲) جھاڑی کا کاٹنا (۳) لڑاکا انسان (۴) جس
 سے جھاڑ جھڑانا مشکل ہو جائے۔

جھاڑ کھنڈ - (۱) مذ] جھاڑ فار جنگل۔ ایسا جنگل جو کھنڈے خار دار درختوں اور
 جھاڑیوں سے بنا پڑا ہو۔ (۲) بن۔

جھاڑ کے پرنکالنا - (۱) محاورہ (۲) کثرت سے پرنکالنا۔

جھاڑ لینا - (۱) محاورہ (۲) نفع کمالینا (۳) صفائی کر لینا (۴) برتن میں
 سے چیز کی پوری مقدار نکال لینا۔

جھاڑ لہو کر لہٹنا - (۱) محاورہ (۲) جھاڑ ہو جانا۔ چھینا چھوڑنا۔ چھٹ جانا۔
 جھاڑا - (جھاڑ - نا) [جھ - ۱ - ۵ - مذ] (۱) کانٹے دار درخت۔ کوڑا کرکٹ۔

(۲) پانخانہ (۳) جامہ تلاشی۔ تقشیش (۴) منتر پڑھ کر چھوٹنے کا عمل۔
 جھاڑا (پھرننا) جھانا - (۱) محاورہ (۲) پانخانہ پھرننا۔ ٹٹی کرنا۔

جھاڑ لینا - (۱) محاورہ (۲) تلاشی لینا۔

جھاڑ لٹن - (جھاڑ - لٹن) [جھ - ۱ - مرث] (۱) گردوغبار جھاڑنے کا کپڑا (۲)
 جھاڑنے کا عمل (۳) چھین (۴) مذکر کوڑا کرکٹ۔

جھاڑ لٹن پونچھنا - (۱) وہ چیز جو صفائی کرنے سے نکلے (جھاڑا) آخری
 پونچھ۔

جھاڑ لٹنا - (جھاڑ - نا) [جھ - مرث] (۱) صاف کرنا۔ جھاڑو دینا۔ پونچھنا۔ (۲)
 جھٹکنا۔ پھٹکنا (۳) پڑ پڑ سے پتے پھول یا پھل کرنا یا توڑنا (۴) مارنا۔

لگانا (۵) ریندوق۔ چھوڑنا۔ فیر کرنا (۶) کھلی کرنا۔ بال صاف کرنا (۷)
 دم کرنا۔ چھوٹنا (۸) جھٹکا سے آگ پیدا کرنا (۹) پرہنے کا پیر کرنا۔

(۱۰) پھٹکا کرنا۔ سرزنش کرنا۔ آڑے ہاتھوں لینا۔ لٹاڑنا۔ ذلیل کرنا۔
 جھاڑنا جھٹکنا - (۱) محاورہ (۲) جھاڑو دینا۔ صفائی کرنا (۳) جو کچھ کسی
 کے پاس ہو اس سے لے لینا۔

جھاڑو - (جھاڑو) [مذ ۱-۵] متکون یا تیلیوں کو ایک طرف سے بانہ کر بنایا ہوا آکھ جس سے کوڑا کرکٹ وغیرہ صاف کرتے ہیں۔ جھاڑو۔
 دم دار ستارہ۔
 جھاڑو پھیرنا (پھیر جانا) - (امجادورہ) برابادی معنی ہونا۔
 جھاڑو پھیر دینا (پھیرنا) - (امجادورہ) ۱) صفایا کرنا۔ کچھ نہ چھوڑنا۔
 سب چرائینا یا اڑا دینا (۲) برپا کرنا۔ ٹوٹ لینا۔
 جھاڑو تارا - (مذ) دم دار ستارہ۔ دنبالہ دار ستارہ۔
 جھاڑو دینا - (امجادورہ) ۱) صفائی کرنا (۲) صفایا کرنا (۳) سب چٹ کرنا (۴) اپنی خواہش سے تیار کر دینا۔
 جھاڑو مارنا - (امجادورہ) نفرت کا اظہار۔ انتہائی تنفر۔
 جھاڑو ہمو کر لینا - (امجادورہ) ہمو جانا۔ پیچھے پڑ جانا۔ ایسا پٹنا کہ پچھا پھرا نا مشکل ہو۔
 جھاڑی - (جھاڑی) [مذ ۱-۵] چھوٹے کانٹے دار درخت (۲) وہ جگہ جہاں چھوٹے قد کے کانٹے دار درخت ہوں جنگل۔ بن (۳) جھڑی۔
 جھاڑی بڑی کا پیر - (مذ) چھوٹے چھوٹے سرخ جنگلی پیر۔
 جھانسا - (جھانسا) [مذ ۱-۵] (۱) مصلح خواہش کرنا۔
 جھاگ - (مذ) وہ سفید سفید گیلے جو پانی کے زور یا ابال آنے سے پیدا ہوتے ہیں۔ اور بہت زیادہ غصے اور جوش کی حالت میں آدمی کے منہ سے بھی نکل کر آتے ہیں۔ کھٹ۔ پھین۔
 جھاگ لانا - (امجادورہ) غصے یا جوش کی حالت میں منہ سے نکل کر اڑنا۔
 جھال - (مذ) مریخ وغیرہ کی تیزی۔ مہین (۲) چاند (۳) موج بزرگی ہلورا۔ طلائف۔ (۴) بڑی اور چوڑی ٹوکری۔ جھل (۵) مینہ یا آؤلوں کی کیبارگی ہلکی لوبھڑا (۶) [مذ] دھات کا جوڑا ٹاٹکا (۷) حسد۔ غصہ (۸) (صفت) تیز۔ کرٹوا۔
 جھال آنا - (امجادورہ) ۱) زو آنا۔ طوفان آنا (۲) دفعۃً مینہ پڑنا یا اولے کرنا۔
 جھالا - (جھالا) [مذ ۱-۵] ۱) لیسامینہ جو ایک جگہ برسے مگر اس کے قریب کے دوسرے مقامات پر نہ برسے۔ مقامی بارش۔ (۲) عورتوں کا فون کا ایک زیور۔
 جھانکر - (جھا۔ لڑ) [مذ ۱-۵] [صفت] حاشیہ کنارہ۔ پتہ۔
 جھال وار - (۱) صفت۔ وہ چیز جس میں جھال لگی ہوتی ہو۔
 جھالو - (جھالو) [مذ ۱-۵] ۱) پکائیاں (۲) پانی کا بڑا گند (۳) بھرننا۔
 چشمہ گول کئی باؤلی۔
 جھالنا - (جھالنا) [مذ ۱-۵] ۱) جھال لگانا۔ ٹاٹکا لگانا۔ جوڑ لگانا (۲) پانی یا شراب کو روت میں لگا کر ٹھنڈا کرنا (۳) جھیلنا (رق)۔
 جھام - (مذ) ۱-۵) چھاوڑے کی شکل کا ایک آکھ جس سے کنوئیں میں آمونج نکالتے ہیں۔

جھاڑو - [مذ ۱-۵] سوئیاں اور نیگلے وغیرہ تیز کرنے کا پتھر (مزنٹ) [۲] ذل ذل (۳) مراب۔
 جھانپ - [مذ ۱-۵] ۱) بانس کا ٹوکرا یا خان پرش (۲) ڈیوڑھی کے آگے کا سائبان (۳) بانس کے جوکے کا پردہ (۴) بانس کا ٹھاٹھ جس پر ٹاٹ لگا دیا گیا ہو (۵) بانس کی چھپیوں کا ڈر یا (۶) کبھی کاٹ (۷) کڑھی کا پتلا چوڑا تختہ جس کا چھت پر پٹا دیکھا جاتا ہے (۸) چھپا ہوا۔
 پرشیدہ (رق) (۹) چھلانگ (رق)
 جھانپل - (۱) مراب۔ ایک سیاہ رنگ کا چاکلہ پرندہ کال لکھی۔
 جھانپنا - (جھانپنا) [مذ ۱-۵] [مذ] ۱) پردہ ٹوانا۔ چھپانا (۲) بند کرنا۔ دروازہ لگانا (۳) غلاف چھٹانا۔
 جھانپو - (جھانپو) [مذ ۱-۵] ۱) ایک چڑیا جو اپنی دم اٹھاتی اور گرائی رہتی ہے (۲) جھانپنا۔ فاحشہ۔
 جھانٹ - [مذ ۱-۵] ۱) انسانی جسم کے وہ بال جو زیر ناف ہوتے ہیں (۲) اونے یا بے حقیقت چیز (۳) ادنیٰ آدمی۔
 جھانٹ اپاڑے سے مراد وہ ہلکا نہیں ہوتا۔ (دش) تھوڑی سی مدد سے کام نہیں بنا کرتا۔ امداد ہونو بھرنو ہرنی چاہیے۔
 جھانٹ برابر - (۱) صفت۔ (۲) بہت ذرا۔ بہت چھوٹا (۳) بے حقیقت۔ بے وقعت۔ جس کی کوئی حیثیت نہ ہو۔ ادنیٰ۔
 جھانٹ برابر نہ سمجھنا - (۱) محاورہ) کچھ بھی وقعت نہ ہونا۔
 جھانٹ بھی نہ اکھاڑ سکتا - (۱) محاورہ) ذرا سا بھی نقصان نہ پہنچا سکتا۔ کسی قابل نہ ہونا۔
 جھانٹ کی جھٹلی - (۱) صفت) نہایت ادنیٰ۔ بالکل ذرا سا بہت چھوٹا سا۔ بے حقیقت۔
 جھانٹیں اکھاڑنا - (۱) محاورہ) طنزاً کچھ نہ کہہ سکتے کے موقع پر بولتے ہیں۔ پھر کندہ کرنا۔
 جھانٹیں ٹوک لگانا - (۱) امرتے سے زیر ناف کے بال صاف کرنا (۲) کوئی کام آتنا تھوڑا کرنا کہ کیا نہ کیا برابر ہو۔
 جھانج - جھانجھ - [مذ ۱-۵] [مذ] ۱) غصہ۔ طیش (۲) تیزی۔ تندی (۳) بے صبری۔ بے تابی (۴) خواہش۔ شہوت (۵) پاؤں کا ایک زیور (۶) وہ طشت یاں یا ٹھالیاں جن کے نیچے ڈر یا بندھا جاتا ہے اور موصول کے ساتھ ساتھ جانی جاتی ہیں۔
 جھانجھ لانا - (۱) محاورہ) لڑنا۔ غصہ دکھانا۔ سیکھار کرنا۔
 جھانجن - جھانجن - (جھانجن) - جھانجن - (جھانجن) [مذ ۱-۵] [مذ] ۱) جھانجن کا پاؤں کا ایک زیور جو کھوکھلا ہوتا ہے اور اندر پڑے ہوئے لکڑی یا دانوں کی وجہ سے جھن جھن بولتا ہے۔
 جھانسا - (جھانسا) [مذ ۱-۵] [مذ] ۱) دھوکہ۔ فریب۔ مبل۔ (۲) آس۔
 جھانسانا یا دینا - (۱) محاورہ) دھوکہ دینا۔ فریب کرنا۔ چال کھیلنا۔
 جھانے میں آنا - (۱) محاورہ) دھوکہ کیا جانا۔ فریب میں آجانا۔
 جھانے باز - (مذ) دھوکے باز۔ فریبی۔ دغا باز۔

جھانسیا۔ (جھان۔ جس۔ یا) [اُر۔ صفت] جھانسا دینے والا فربہ۔
دھوکے باز۔

جھانک۔ [۵۔ ۱۔ مہنت] [۱۱] چوری چوری دیکھنا۔ دُرُودیدہ نظر۔
جھانکا جھانکی۔ جھانکا جھونکی۔ (جھانہ کا۔ جھان۔ کی) (جھان۔ کا۔
جھون۔ کی) [۵۔ ۱۔ مہنت] [۱۱] دروازے، کھڑکی یا درزن میں
سے دیکھ کر ہلدی سے ہٹ جانا۔ تاک جھانک۔

جھانکڑ۔ (جھان۔ کڑ) [۵۔ ۱۔ ۱۰] [۱۱] کانٹے دار درخت یا جھاڑی [۲] درخت
کا ٹوکھا ہوتا (۳) ڈبلا۔ کم زور۔

جھانکنا۔ (جھانک۔ نا) [۵] [۱۱] مہنت کر دیکھنا [۲] دروازے یا
کھڑکی سے ٹٹ باہر نکال کر دیکھنا۔ [۳] گھوم بھرنے کے لیے آنا۔

جھانکی۔ (جھان۔ کی) [۵۔ ۱۔ مہنت] [۱۱] نظارہ۔ بین۔ دید [۲] جھٹک۔ لمحہ
بھرنے کے لیے دیکھنا یا دکھانا [۳] سوانگ۔ تماشا۔ نمائش۔ کوئی چیز
پر دسے کے اندر سے جھانکنا [۴] چھید۔ روزن۔ زخمت۔ سوراخ۔

جھانوال۔ (جھان۔ وال) [۵۔ ۱۔ مہنت] [۱۱] کھڑکی ایٹھ یا پتھر کا ٹکڑا جس
سے ہاتھ پاؤں کو گڑھا کر لیا جاتا ہے۔

جھانولی۔ (جھان۔ ولی) [۵۔ ۱۔ مہنت] [۱۱] آنکھ فرازا بند کر کے دیکھنا۔
ترجمی نظر۔ آنکھ مارنا [۲] آنکھوں آنکھوں میں بات کرنا۔ غزہ۔
عشوہ۔ کرشمہ [۳] نازاوا [۴] جھانہ۔ فریب [۵] گرم ہونا۔ ٹو۔

جھانولی باز۔ [۵] [۱۱] غم سے کرنے والا [۲] چھل کرنے والا۔ جھیلنا۔
جھانولی دینا۔ [۱۔ ۱۰] [۱۱] معشوق کی نظر سے دیکھنا [۲] ناز بھرنی
نگاہ ڈالنا۔

جھاؤ۔ (جھا۔ اؤ) [۵۔ ۱۰۔ ۱۰] [۱۱] ایک قسم کا پودا جو دریاؤں کے کنارے
پر آتا ہے اور جس سے ٹوکریاں کو گیزہ بنائی جاتی ہیں (پس)
پچی۔

جھابٹیاں۔ (جھا۔ ایاں) [۵۔ ۱۰۔ مہنت] [۱۱] [۱۱] داغ جھینپ کے
نشان۔

جھابٹیاں پڑھانا، پڑھانا۔ جگے جگے سیاہ دھبے پڑھانا۔
جھابٹیں۔ (جھا۔ ایں) [۵۔ ۱۔ مہنت] [۱۱] سایہ پر جھابٹیں [۲] وہ عکس
جو شیشے کو سورج کے سامنے کرنے سے پڑتا ہے [۳] میلا رنگ
[۴] تینے کا داغ جو کسی جگہ سے قلمی اثر جانے سے پیدا ہوتا ہے
[۵] پیرے کا داغ [۶] چانر کے دھبے [۷] سیاہی کے دھبے۔

جھابٹیں جھپا۔ [۱۱] جلدی سے جھٹک دکھا کر چھپ جانا [۲] دھوکا۔
فردیب۔

جھابٹیں مابٹیں۔ بچوں کا ایک کھیل جس میں وہ چمک پھیرتے جاتے ہیں
اور کوٹوں کی طرح کائیں کائیں کرتے جاتے ہیں۔

جھابٹیں جھابٹیں۔ (جھا۔ ایں۔ جھا۔ ایں) [اُر۔ ۱۔ مہنت] [۱۱] جھٹک
جھٹک۔ بے معنی شور و غوغا (جھین جھین بھی بولتے ہیں)
جھبٹیا۔ (جھبٹ۔ یا) [۵۔ ۱۔ ۱۰] [۱۱] چھندنا [۲] گچھا [۳] آویزہ [۴] بڑے
بڑے کان [۵] جتہ [۶] دق

جھبھرا۔ (جھبٹ۔ لا) [۵۔ ۱۰۔ ۱۰] [۱۱] بڑے بڑے بالوں والا (جھوان) [۱۱] بے
لبے بالوں والا۔

جھبٹ۔ [۵] [۱۱] فوراً۔ جلد سے جلد [۲] اچھٹنا۔ کودنا۔ جھینٹنا [۳] جھٹکا
کھانا [۴] کودنا۔ جھانک [صفت] جلد باز۔

جھبٹ جالیبا۔ [۱۔ ۱۰] [۱۱] جال ڈال کر پھیل پھیلنے والا [۲] مزاحا) فربہ
جھل ساز۔

جھبٹ جھبٹ۔ جھپا جھبٹ۔ [۱۔ ۱۰] [۱۱] جلدی جلدی۔ بڑی تیزی سے
جھبٹے۔ [۱۔ ۱۰] [۱۱] فوراً۔ جھپکی جھانے میں۔

جھبٹ کھانا۔ [۱۔ ۱۰] [۱۱] پتنگ کا جلد پینڈی کے بل گر پڑنا۔ کنگوے
کا آٹھ کر گرنا۔

جھبٹا۔ (جھب۔ پا۔ ٹا) [۵۔ ۱۰۔ ۱۰] [۱۱] جلدی سے کوئی کام کرنا۔
جھپناک۔ (جھب۔ پاک) [۵۔ ۱۰۔ ۱۰] [۱۱] مہنت [۲] جلدی۔ پھرتی [۳] چالاکی۔
[۴] جلد۔ فوراً۔

جھپناک جھپناک۔ جلدی جلدی۔ پیک کر۔
جھپناک سے۔ [۱۱] [۱۱] تڑت۔ تڑت۔ پھرت۔ جلدی سے۔ جھبٹ پٹ۔
فردا۔

جھپناکا۔ (جھب۔ پا۔ کا) [۵۔ ۱۰۔ ۱۰] [۱۱] جلدی جلدی ہاتھ چلانا یا آنا جانا۔
جھپناکا مارنا۔ [۱۔ ۱۰] [۱۱] کوئی کام بہت جلد کرنا۔

جھپنا۔ (جھپ۔ پان) [۵۔ ۱۰۔ ۱۰] [۱۱] ایک قسم کی عماری یا پاکی جس کا
پہاڑی علاقوں میں رواج ہے [۲] مرض کی کمزوری۔
جھپنا۔ (جھپ۔ پان) [۵۔ ۱۰] [۱۱] پتنگ کا آٹھ جانا۔

جھپنا۔ (جھب۔ پان) [۵۔ ۱۰] [۱۱] آنکھ جھپنا۔ آنکھ لینا۔ سونا [۲] شرمندہ
جھپنا۔ (جھپ۔ پان) [۵۔ ۱۰] [۱۱] [۱۱] مہنت [۲] جھپنا۔ جھپنا۔ جھپنا۔ جھپنا۔
جھپنا۔ (جھب۔ پان) [۵۔ ۱۰] [۱۱] [۱۱] مہنت [۲] جھپنا۔ جھپنا۔ جھپنا۔ جھپنا۔

جھپنا۔ (جھب۔ پان) [۵۔ ۱۰] [۱۱] [۱۱] مہنت [۲] جھپنا۔ جھپنا۔ جھپنا۔ جھپنا۔
جھپٹ۔ (جھب۔ پٹ) [۵۔ ۱۰] [۱۱] [۱۱] مہنت [۲] جھپٹ۔ جھپٹ۔ جھپٹ۔ جھپٹ۔
جھپٹ جانا۔ [۱۔ ۱۰] [۱۱] تیز جانا۔ جلدی جانا۔ دوڑ کر جانا۔
جھپٹ کر آنا۔ [۱۔ ۱۰] [۱۱] [۱۱] مہنت [۲] جھپٹ کر آنا۔

جھپٹ لینا۔ [۱۔ ۱۰] [۱۱] [۱۱] تیز رفتاری سے لینا۔ ہاتھ سے چھین لینا۔
[۲] کوئی چیز ہتھیانے میں عزیز معمولی پھرتی سے کام لینا۔
جھپٹ میں آجانا۔ [۱۔ ۱۰] [۱۱] [۱۱] مہنت [۲] جھپٹ میں آجانا۔

جھپٹا۔ (جھب۔ پٹ) [۵۔ ۱۰] [۱۱] [۱۱] کسی پر بند یا جھوان کا اچانک کسی چیز
پر آگنا اور اسے چھین کر لے جانا۔ جھٹل یا جھب مارنا۔
جھپٹا مارنا۔ [۱۔ ۱۰] [۱۱] [۱۱] مہنت [۲] جھپٹا مارنا۔

جھپٹنا۔ (جھبٹ۔ ٹا) [۵۔ ۱۰] [۱۱] [۱۱] جلدی سے روانہ کرنا یا دوڑانا۔ جلدی جھپٹنا۔
جھپٹنا۔ (جھب۔ پٹ) [۵۔ ۱۰] [۱۱] [۱۱] مہنت [۲] جھپٹنا۔ جھپٹنا۔ جھپٹنا۔ جھپٹنا۔
[۳] درمیان ہی سے لینا [۴] ہاتھ مارنا۔

جھپٹا۔ (جھبٹ۔ ٹا) [۵۔ ۱۰] [۱۱] [۱۱] مہنت [۲] جھپٹا۔ جھپٹا۔ جھپٹا۔ جھپٹا۔
جھپٹا۔ (جھبٹ۔ ٹا) [۵۔ ۱۰] [۱۱] [۱۱] مہنت [۲] جھپٹا۔ جھپٹا۔ جھپٹا۔ جھپٹا۔
جھپٹا۔ (جھبٹ۔ ٹا) [۵۔ ۱۰] [۱۱] [۱۱] مہنت [۲] جھپٹا۔ جھپٹا۔ جھپٹا۔ جھپٹا۔

جھپٹا۔ (جھبٹ۔ ٹا) [۵۔ ۱۰] [۱۱] [۱۱] مہنت [۲] جھپٹا۔ جھپٹا۔ جھپٹا۔ جھپٹا۔
جھپٹا۔ (جھبٹ۔ ٹا) [۵۔ ۱۰] [۱۱] [۱۱] مہنت [۲] جھپٹا۔ جھپٹا۔ جھپٹا۔ جھپٹا۔
جھپٹا۔ (جھبٹ۔ ٹا) [۵۔ ۱۰] [۱۱] [۱۱] مہنت [۲] جھپٹا۔ جھپٹا۔ جھپٹا۔ جھپٹا۔

جھپٹ آنا - (۱) محاورہ آنکھ لگ جانا۔ شرم آنا۔

جھپٹ جانا - (۱) محاورہ (۱) آنکھ لگ جانا۔ شرم آنا۔

جھپٹ دکھانا - (۱) محاورہ صورت دکھانا۔

جھپٹکا - (جھپٹ - کا) (ق) - مذ [ذوا کا جھونکا۔

جھپٹکنا - (جھپٹکنا) (۱) [میں] آنکھیں بند ہونا۔ (۲) شرمندہ ہونا۔ جھپٹنا۔

(۳) ڈرنا (۴) چھیننا (۵) آنکھ مازنا (۶) لہانا۔ جھٹلانا۔

جھپٹکی - (جھپٹ - کنی) (۱) - مرث [(۱) اونگھ۔ غموگی۔ ٹیند (۲) فزاسی دیر کے لیے آنا۔ (۳) جھپٹنا۔

جھپکی لینا - (۱) محاورہ تنوڑی ویرکے لیے سو رہنا۔

جھپٹیٹ - (جھپ - ٹیٹ) (۱) [میں] (۲) جن پری کا سایہ۔ بھوت پرست کا اثر۔ آسیب (۳) دھکا۔ صدمہ (۴) دوڑ۔ تاخت۔

جھپیٹ کھانا - (۱) محاورہ دھکا لگنا۔ چوٹ کھانا۔

جھپیٹ میں آنا - (۱) محاورہ (۱) کسی دودتے ہوئے انسان یا حیوان کی زبردستی (۲) دھکا لگنا۔ (۳) بھوت پرست یا جن پری کا سایہ ہونا

جاؤ ویسا جانا (۴) کسی کے قابو میں آنا۔ زیر اثر ہونا۔

جھپٹیا - (جھپ - پٹیا) (۱) [میں] آسیب کا سایہ۔ جن پری کا اثر۔ جاؤ کے اثر میں ہونا۔

جھپیٹ میں آنا - (۱) محاورہ (۱) زردی میں آنا (۲) بھوت پرست یا جن پری کا سایہ ہونا۔

جھپیٹ میں لانا - (۱) محاورہ (۱) قابو میں لانا (۲) زردی میں لانا۔

جھٹ - (جھٹ - صفت) (۱) جلدی سے - فوراً۔ وقتاً (۲) عادت۔ لنت (ق) (۳) جھٹلا (ق)

جھٹ پٹ - (جھٹ - پٹ) (۱) صفت بہت جلد - فوراً۔ بلا توقف۔

جھٹ پٹ کی گھائی آدھا نیل آدھا پانی - (جھٹ) غیر ضروری جلدی کرنے سے چیز یا کام بگڑ جانا ہے۔

جھٹ سے - (فوراً) پھرتی سے - جلدی سے۔

جھٹال دینا - (جھٹ - ٹال - دے) (۱) [میں] (۲) محاورہ (۳) جھٹال کر دینا (۴) خودک جھوٹی کر دینا (۵) تھوڑا سا کھلنا۔

جھٹال لینا - (جھٹ - ٹال - لے) (۱) [میں] (۲) محاورہ (۳) چکھ کر جو بھی کر دینا۔

جھٹالنا - (جھٹ - ٹال - نا) (۱) [میں] (۲) محاورہ (۳) جھٹالنا۔ جھٹالنا۔ بات جھوٹی کرنا۔ بیان غلط ثابت کرنا۔ (۴) چکھ کے چھوڑ دینا (۵) جھٹال کر دینا۔

جھٹالنا - (جھٹ - ٹال - نا) (ق) [میں] جھٹالنا۔

جھٹ - پٹا - (جھٹ - پٹ - ٹا) (۱) [میں] صبح یا شام کی سیاسی۔ دونوں وقت لینا۔ غروب آفتاب۔

جھٹ پٹا وقت - جھٹ پٹے کا وقت۔ (۱) [میں] صبح یا شام کا وقت جب کسی قدر اندھیرا ہو۔

جھٹکنا - (جھٹ - ٹکنا) (۱) [میں] (۲) محاورہ (۳) بچکھ لانا۔ صدمہ۔

جھٹک جانا - (۱) محاورہ (۲) ڈرنا۔ (۳) محاورہ (۴) ڈرنا۔ (۵) ڈرنا۔ (۶) ڈرنا۔ (۷) ڈرنا۔ (۸) ڈرنا۔ (۹) ڈرنا۔ (۱۰) ڈرنا۔

جھٹکنا - (۱) محاورہ (۲) ڈرنا۔ (۳) محاورہ (۴) ڈرنا۔ (۵) ڈرنا۔ (۶) ڈرنا۔ (۷) ڈرنا۔ (۸) ڈرنا۔ (۹) ڈرنا۔ (۱۰) ڈرنا۔

جھٹکنا - (۱) محاورہ (۲) ڈرنا۔ (۳) محاورہ (۴) ڈرنا۔ (۵) ڈرنا۔ (۶) ڈرنا۔ (۷) ڈرنا۔ (۸) ڈرنا۔ (۹) ڈرنا۔ (۱۰) ڈرنا۔

جھٹکنا - (۱) محاورہ (۲) ڈرنا۔ (۳) محاورہ (۴) ڈرنا۔ (۵) ڈرنا۔ (۶) ڈرنا۔ (۷) ڈرنا۔ (۸) ڈرنا۔ (۹) ڈرنا۔ (۱۰) ڈرنا۔

جھٹکنا - (۱) محاورہ (۲) ڈرنا۔ (۳) محاورہ (۴) ڈرنا۔ (۵) ڈرنا۔ (۶) ڈرنا۔ (۷) ڈرنا۔ (۸) ڈرنا۔ (۹) ڈرنا۔ (۱۰) ڈرنا۔

جھٹکنا - (۱) محاورہ (۲) ڈرنا۔ (۳) محاورہ (۴) ڈرنا۔ (۵) ڈرنا۔ (۶) ڈرنا۔ (۷) ڈرنا۔ (۸) ڈرنا۔ (۹) ڈرنا۔ (۱۰) ڈرنا۔

جھٹکنا - (۱) محاورہ (۲) ڈرنا۔ (۳) محاورہ (۴) ڈرنا۔ (۵) ڈرنا۔ (۶) ڈرنا۔ (۷) ڈرنا۔ (۸) ڈرنا۔ (۹) ڈرنا۔ (۱۰) ڈرنا۔

جھٹکنا - (۱) محاورہ (۲) ڈرنا۔ (۳) محاورہ (۴) ڈرنا۔ (۵) ڈرنا۔ (۶) ڈرنا۔ (۷) ڈرنا۔ (۸) ڈرنا۔ (۹) ڈرنا۔ (۱۰) ڈرنا۔

جھٹکنا - (۱) محاورہ (۲) ڈرنا۔ (۳) محاورہ (۴) ڈرنا۔ (۵) ڈرنا۔ (۶) ڈرنا۔ (۷) ڈرنا۔ (۸) ڈرنا۔ (۹) ڈرنا۔ (۱۰) ڈرنا۔

دینا۔

جھٹک لینا - (۱) محاورہ (۲) جھپٹ لینا۔ آنکھ لینا۔

جھٹکا - (جھٹ - کا) (۱) [میں] (۲) محاورہ (۳) صدمہ (۴) گڑ (۵) مصیبت۔ آفت۔

(۶) تلوار مار کر جانور کی گردن کاٹنا جو مسلمانوں کے نزدیک حرام ہے (۷) نقصان۔ خسارہ۔

جھٹکا اٹھانا - (۱) محاورہ (۲) صدمہ اٹھانا۔ مصیبت اٹھانا (۳) خسارہ برداشت کرنا۔

جھٹکا پڑنا - (۱) محاورہ (۲) دھکا لگنا۔ صدمہ پہنچنا۔

جھٹکا دینا - (۱) محاورہ (۲) کسی کو زور سے بلانا یا جھٹلانا۔ (۳) صدمہ پہنچانا۔

جھٹکا کرنا - (۱) جانور کی گردن پھٹا کر ہاتھ مار کر فوج کرنا (۲) [ق] [چوری کرنا۔

جھٹکا کھانا - (۱) محاورہ (۲) مصیبت اٹھانا۔ تکلیف سہنا (۳) جھٹکے کا گزشت کھانا۔

جھٹکے پانا - (۱) محاورہ (۲) صدمے اٹھانا۔ اذیتیں ہونا۔

جھٹکے کا مال - (۱) محاورہ (۲) چوری کا مال۔ ڈاکے کا مال۔

جھٹکنا - (جھٹ - ٹکنا) (۱) [میں] (۲) محاورہ (۳) زور سے بلانا یا جھٹلانا۔

دینا۔ دھکا دینا (۴) صدمہ پہنچانا (۵) ڈرنا یا لاغر ہونا (۶) جھپٹنا۔ بالا

بالا ہستیانہ۔

جھٹل - (جھٹل - قن) (۱) [میں] (۲) محاورہ (۳) ٹوٹ کا۔ دکھاوے کا۔

جھٹلانا - (جھٹل - لانا) (۱) [میں] (۲) محاورہ (۳) جھٹلانا۔ جھٹلانا۔

جھٹلنا - (جھٹل - نا) (ق) [میں] (۲) محاورہ (۳) جھٹلانا۔ جھٹلانا۔

جھٹلنا۔

جھٹلنا۔

جھٹلنا۔

جھٹلنا۔

جھٹلنا۔

جھٹلنا۔

جھٹلنا۔

جھٹلنا۔

جھٹلنا۔

جھٹلنا۔

جھٹلنا۔

جھٹلنا۔

جھٹلنا۔

جھٹلنا۔

جھٹلنا۔

جھٹلنا۔

جھٹلنا۔

جھٹلنا۔

(۳) ناراض ہونا۔ جھینلانا (۴) دھککانا۔ لٹانا
 جھڑ جھڑاہٹ - (جھڑ - جھڑا۔ جھڑ) [۱-۵] مٹھ [جھڑ جھڑا کامل باباوا۔
 جھینلانا۔ تیز مزاجی۔ غصہ۔ جوش۔
 جھڑکٹ - (جھڑ - ٹکٹ) [۱-۵] مٹھ [۱] دھکی۔ ننگی [۲] ڈانٹ ڈپٹ۔
 جھڑک جھڑک - (۱) محاورہ [ڈانٹ وینا۔ علامت کرنا۔
 جھڑکا جھڑکی - (جھڑ - کا۔ جھڑکی) [۱-۵] مٹھ [۱] ایک دوسرے سے
 ناراض ہونا یا خفا ہونا۔
 جھڑکنا - (جھڑ - ٹکٹ - نا) [۱-۵] مٹھ [۱] گھرنے۔ ڈھٹکارنا۔ ڈانٹا ڈپٹنا۔ برا بھلا
 جھڑکی - (جھڑ - کنی) [۱-۵] مٹھ [۱] گھر کی [ڈانٹ ڈپٹ۔ لعنت۔
 علامت۔
 جھڑکیاں پڑنا - (۱) محاورہ [لٹانا۔ سرزنش ہونا۔
 جھڑکیاں کھانا - (۱) محاورہ [گھریاں نٹنا۔ عتاب سنا۔ لٹا پڑنا۔
 جھڑن - (جھڑ - ٹن) [۱-۵] مٹھ [۱] درخت سے پھل گرنے۔ پرنے سے
 کے پھل پڑنا (۳) آدمی یا جانور کے بال گرنے (۴) جو کچھ جھاڑنے کے بعد
 ہاتھ آئے (کوڑا کرکٹ) چھلن۔ کترن وغیرہ - (۵) نفع - فائدہ - (۶)
 گھر میں۔ تل چھٹ (۷) اوپر کی آمدنی - سود (۸) چرخ کا گھل۔
 جھڑنا - (جھڑ - نا) [۱-۵] مٹھ [۱] گرنے۔ ٹپکنا (۲) بچت ہونا۔ نفع ہونا (۳)
 جھاڑ دی جانا (۴) دم ہونا۔ منتر پھونکا جانا (۵) انزال ہونا۔
 جھڑونا - (جھڑ - ٹوٹنا) [۱-۵] مٹھ [۱] وہ پھل جو آخر فصل میں درخت
 پر لگا رہے (۲) [صفت] بے موسم۔
 جھڑوس - (جھڑ - ٹوس) [۱-۵] مٹھ [۱] بدنام ہونا (۲) بے غیرت۔
 (۳) ڈیوٹ۔
 جھڑی - (جھڑ - ٹی) [۱-۵] مٹھ [۱] لگانا بارش (۲) متواتر پڑنا۔
 (۳) آسمانوں کی قطار۔
 جھڑی پاندھنا، لگانا - (۱) محاورہ [۱] لگانا رونا (۲) مینہ کا برسے
 جانا۔ تیار نہ ہونا۔
 جھڑیل - (جھڑ - یل) [۱-۵] صفت [پونج۔ پچرے ہو وہ۔
 جھک - (۱-۵) مٹھ [۱] بھواس۔ بک بک۔ فضول باتیں۔ ضبط۔ بڑ۔
 ایسی باتیں جو سمجھ میں نہ آئیں (۲) جنون۔ دیوانگی۔ ہذیان (۳) بیوقوفی۔
 واہیات۔ لغویت (۴) [مذکر] غصہ۔ جوش (۵) تکرار۔ جھکڑا۔
 جھک مارنا - (۱) محاورہ [۱] بھواس کرنا۔ بیوقوفی کرنا (۲)
 جھوٹ ہونا۔
 جھک جھک - (۱) مٹھ [۱] جھکڑا بکرا۔ بک بک۔
 جھکنا - (۱) مٹھ [۱] حیران کرنا۔ ستانا (۲) ہیرا پھیری کرنا۔ (۳) ٹالے ہالے
 کرنا۔
 جھک - (۱-۵) صفت [۱] صاف۔ اُجلا (۲) زرق برق۔ چمکدار۔ روشن۔
 منور۔
 جھک کر دینا - (۱) خوب چمکا دینا (۲) بہت اُجلا کر دینا (۳) صاف

جھکا جھک - (جھڑ - کا۔ جھک) [۱-۵] صفت [۱] صاف۔ اُجلا۔ خوب
 سفید۔ سنھرا (۲) روشن۔ چمکیلا۔ دکھنا ہوا۔ چمکدار۔
 جھکانا - (جھڑ - کاننا) [۱-۵] مٹھ [۱] کج کرنا۔ کج کرنا۔ ٹیڑھا کرنا۔ تڑپھا کرنا (۲)
 شرمندہ کرنا۔ بجانا (۳) تول میں پلانا یا چمکانا (۴) سرنگوں کرنا۔
 جھکاؤ - (جھڑ - کا۔ او) [۱-۵] مٹھ [۱] جھکاؤ - خم (۲) میلان۔ سبحان۔
 جھکاؤٹ - (جھڑ - کا۔ وٹ) [۱-۵] مٹھ [۱] خم ہونے کی حالت جمیدگی۔
 جھک پڑنا - (۱) محاورہ [جھکٹ۔ پڑنا۔ نا] [۱-۵] مٹھ [۱] متوجہ ہونا۔ (۲)
 خمیدہ ہونا۔ اپنی کمتری کا اقرار کر لینا۔
 جھکنے - (جھک - ننا) [۱-۵] صفت [جھکنے ہوا۔ نیچا ہونا ہوا۔
 جھک سنے نوٹے کا سہ - (۱) جھکنا غور اور اکر نہ دکھانے
 اُسے کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا۔
 جھک کر بلنا - (جھک - کٹہ۔ یل - نا) [۱-۵] مٹھ [۱] عاجز و انکار سے ملنا
 تراضی سے پیش آنا۔
 جھکٹ - (جھکٹ - کڑ) [۱-۵] مٹھ [۱] آدھی۔ میز ہوا (۲) جھکٹ - بک بک۔
 جھکڑ جھکڑا - (۱) محاورہ [آدھی آنا۔ گرد و خارا اُڑنا۔
 جھکنے - (جھکٹ - نا) [۱-۵] مٹھ [۱] خمیدہ ہونا۔ نیچا ہونا۔ مڑنا۔ ٹیڑھا
 ہونا۔ تڑپھا ہونا۔ بل کھانا (۲) منکر المزاج ہونا۔ عاجزی سے ملنا (۳)
 متوجہ ہونا (۴) مشغول ہونا۔ تیرات کرنا (دینا) (۵) خمیدہ ہونا (۶) گرنے۔
 پڑنا (۷) تنظیم کرنا۔ برتری ماننا (۸) زمیندہ سے آنکھیں (۹) بوجھل ہونا (۱۰) تسلیم
 کرنا۔ (۱۱) تول میں پلے جھکانا۔
 جھکنے - (جھک - نی) [۱-۵] مٹھ [۱] غم۔
 جھکور - (جھڑ - کور) [۱-۵] مٹھ [۱] دل جانا (۲) نقصان (۳) آفت۔ (۴)
 جھکورا - (جھڑ - کورا) [۱-۵] مٹھ [۱] ہٹنا لہرنا۔ مٹھ مٹھانا (۲) ہوا کا تیز چھونکا۔
 (۳) پانی کی لہر جس سے کنارے کی چیزوں میں حرکت آجاتے (۴) بارش
 کا تیز چھینٹا۔
 جھکولا - (جھڑ - کولا) [۱-۵] مٹھ [۱] ہٹنا مٹھنا۔ حرکت کرنا۔ جگہ سے ہل جانا (۲)
 لہر مٹھنا۔ ہلکا (۳) غوطہ۔ ٹونگی (۴) تلخ تجربہ۔ جھکلا۔
 جھکولے دینا - (۱) محاورہ [۱] غوطے دینا (۲) ادھر ادھر پھرانا۔
 جھکولے کھانا - (۱) محاورہ [۱] غوطے کھانا۔ پانی میں کبھی ڈوبنا کبھی اُبھرنا۔
 (۲) زمانے کا گرم سرد چمکانا۔
 جھکولے لگنا - (۱) محاورہ [۱] تلخ تجربے ہونا (۲) معمولات زندگی میں
 فرق آنا۔
 جھکولے لینا - (۱) محاورہ [غوطے کھانا۔ ڈبکیاں لگانا۔
 جھکولنا - (جھڑ - کول - نا) [۱-۵] مٹھ [۱] پانی کو ادھر ادھر پھرانا۔ ہلانا۔ حرکت
 دینا۔ پانی کو کھنگالنا (۲) پانی میں دوڑنا۔ غوطہ مارنا۔
 جھکی - (جھک - کی) [۱-۵] مٹھ [۱] بھواسی۔ زیادہ بولنے والا (۲) ضدی۔
 اڑین۔
 جھکے جو کوئی اس سے جھک جائیے۔ رُکے آپ سے اس سے

جھلکار - (جھل - کار) [ق] - صفت [چمک و دکھ]۔
 جھلکتا - (جھل - لکت - نا) [ہ - مص] [و] کچھ کچھ چمکتا - کسی چیز کے اندر سے چمک دکھانا - عکس ظاہر ہونا (۲) جھلکتا - چمکتا - جلوہ دکھانا (۳) ظاہر ہونا - نمایاں ہونا۔
 جھلکھانا - [ق] - مص [ر شک کرنا]۔
 جھلکی - (جھل - کی) [ہ - ۱ - مرث] [ادھوری جھلک - ہلکی سی جھلک - وہ جلوہ جو بوری طرح نہ دکھایا گیا ہو۔
 جھلم - (جھلم - لڑ) [ہ - ۱ - مرث] [زرہ کی طرح کی نقاب جو جھکی آویڑائی کے وقت اترنے پر ڈال لیتے ہیں۔
 جھلمال - (جھلم - مال) [ق] - صفت [جھلک مل]۔
 جھلم مرے - (ق - صفت) [ہیبت زدہ - خوف زدہ۔
 جھلمبل - (جھلم - بل) [ہ - ۱ - مرث] [۱] ہٹا ہٹ - جھلمکا ہٹ (۲) پانی پر چڑاؤں کی روشنی یا سورج کی شعاعیں پڑنے کی کیفیت - (۳) شادوں کا کمر چمکنا۔
 جھلمبل جھلمبل کرنا - (ادھوری) جھلمکا - ٹٹھکانا۔
 جھلملانا - (جھلم - م - لا - نا) [ہ - مص] [چراغ یا ستاروں کا ٹٹھکانا اور دھندلانا اور چمکتا۔
 جھلملی - (جھلم - م - لی) [ہ - ۱ - مرث] [۱] بھری دار کو اڑا کھڑکی (۲) کان کا ایک زیور - (۳) صیوی و صیوی چمک - ہلکی چاندنی (۴) چمک - پتق۔
 جھلمٹا - (جھلم - ٹا) [ہ - مص] [۱] پٹھکا کرنا (۲) جھال لگنا - ٹانگہ یا پونہ لگنا (۳) برف یا شورے میں لگا کر ٹھنڈا کرنا (۴) جھیلنا جانا۔۔۔ برواشت کیا جانا۔
 جھلمک - (ق - صفت) [سوراخ دار۔
 جھلمکا - (جھلم - کن - گا) [ہ - ۱ - مذکر] [۱] ٹوٹی ہوئی چار پائی کا جھولا (۲) لاغر - ڈبلا۔
 جھلموانا - (جھلم - وا - نا) [ہ - مص] [۱] ہوا کرنا (۲) برتن یا زیور میں ٹانگہ یا بڑا لگانا۔
 جھلموٹی - (جھلم - وا - ای) [ہ - ۱ - مرث] [جھلموانے کی اجرت - زیور یا برتن میں ٹانگہ لگانے کی مزدوری۔
 جھلمون - (جھلم - لون) [ق] - صفت [قدرے۔
 جھلمی - (جھلم - بی) [ہ - ۱ - مرث] [۱] غصیل عورت (۲) ٹوکرا۔
 جھلمی - (جھلم - لی) [ہ - ۱ - مرث] [۱] انسان اور حیوان کے گوشت کا باریک پوست جس میں آر پار نظر آتا ہے (۲) پیٹ کے اندر باریک پوست یا چمڑا - غشا (۳) کھکھ کا باریک جالا (۴) صفت [باریک - پتلا۔
 جھما جھم - (جھم - ما - جھن) [ہ - ۱ - مرث] [۱] مینہ برسنے کی آواز (۲) گولا کلاری کے بڑھیا لباس کی چمک و دکھ (۳) چھم چھمنا چنے کی آواز۔

جھما وینا - (ادھوری) ویدیں لانا - مست کرنا۔
 جھماکا - (جھم - مارا - کا) [ہ - ۱ - مذ] [۱] دھماکا (۲) موسلا دھار بارش - زبردیا۔
 جھماری چھینٹا (۳) چمک۔
 جھم جھم - (ہ - ۱ - مذکر] [۱] بارش کے لگاتار تڑپنے پر پڑنے کی آواز (۲) گولہ کلاری کے بڑھیا لباس کی چمک و دکھ۔
 جھم جھمنا - (جھم - ما - نا) [ہ - ۱ - مرث] [۱] چمکتا ہوا - جھلمکا ہوا۔
 جھم جھمنا - (جھم - ما - نا) [ہ - ۱ - مرث] [۱] چمکتا - آب و تاب دکھانا - جھلمکا نا۔
 جھمک مارنا۔
 جھم جھم - (جھم - مز - جھم - مز) [ہ - ۱ - مرث] [۱] ہلکی ہلکی بارش۔
 جھمک - (جھم - لکت) [ہ - ۱ - مرث] [۱] چمک و دکھ - درختانی - بھڑک۔
 جھمکا - (جھم - کا) [ہ - ۱ - مذ] [۱] حسین عورت کا دیدار۔
 جھمکا - (جھم - لکت - کا) [ہ - ۱ - مذکر] [مرث] [انہو - بھیڑ۔
 جھمکا - (جھم - کا) [ہ - ۱ - مذکر] [۱] خوش (۲) وہ سات ستارے جو آسمان پر لکھے نظر آتے ہیں - عقہہ ثریا (۳) کانوں کا ایک زیور۔
 جھمکانا - (جھم - کا - نا) [ہ - مص] [۱] چمکانا (۲) شان و شوکت دکھانا۔
 جھمکاڑا - (جھم - لکت - ٹا) [ہ - ۱ - مذ] [۱] چمک و دکھ - جھلمک - جھلمک (۲) خوب روٹی - جلوہ - شان و شوکت - کز و فر۔
 جھمکنا - (جھم - لکت - نا) [ہ - مص] [۱] چمکنا دکھنا - جھلمکا۔
 جھمورا - (جھم - مؤ - را) [ہ - ۱ - مذ] [۱] بالوں والا جوان (۲) وہ بچہ جو ماریوں کے ساتھ ہوتا ہے۔
 جھمیل - (جھم - میل) [ہ - ۱ - مرث] [۱] ڈیرہ - اٹکاؤ (۲) بھیرا - جھنڈا - اچھاؤ۔
 جھمیلنا - (جھم - مے - لا) [ہ - ۱ - مذ] [۱] جھلٹا - بھیرا - فساد (۲) ناپسند حالات۔
 جھمیشیا - (جھم - مے - ل) [ہ - ۱ - مذ] [۱] جھلٹا لود (۲) بھیرا کرنے والا۔
 جھمن - (جھم - مرث] [۱] دھات کے برتن بجنے کی آواز (۲) جھنکار (۳) نوازوں کے کلانے یا کرنے کی آواز۔
 جھمنانا - (جھمن - نا - نا) [ہ - مص] [۱] بانٹنا یا پاول (۲) سن ہوجانے سے سوسیاں سی چھینے لگنا۔
 جھنج - (ق - ۱ - مرث] [۱] قفینہ - جھنڈا - لڑائی۔
 جھنجٹ - (جھمن - جٹ - جٹ) [ہ - ۱ - مذ] [۱] جھنڈا - تکرار (۲) قفینہ - جھنڈا - بھیرا - آجھن - وقت - وبال۔
 جھنجٹ لانا - (ادھوری) جھنڈا کھڑا کرنا - تکرار شروع کرنا۔
 جھنجھر - (جھمن - جھن) [ق] [۱ - مذ] [۱] جھنڈا (۲) سویرا - تڑپکا۔
 جھنجھلاہٹ - (ہ - ۱ - مرث] [۱] غصہ - تنگی - ناراضگی۔
 جھنجھلانا - (جھنجھ - لا - نا) [ہ - مص] [۱] غصہ ہونا - خفا ہونا۔
 جھنجھولی - (جھمن - جو - لی) [ہ - ۱ - مرث] [۱] جھنڈا - جھنڈا (۲) [ہ - ۱ - مرث] [۱]

پھاڑی علاقوں کی ایک راگنی (۲) مکرار جھگڑا (۳) جھکی۔
 جھنجھوڑنا۔ جھنجھوڑنا۔ (جھنجھوڑنا) (۱)۔ مہ [۱۵] کسی کو جگانے کے
 لیے زور سے ہلانا (۲) تکلیف دینا۔ تنگ کرنا (۳) تھننا۔ کھسوٹنا (۴)
 لعنت طامت کرنا۔
 جھنجھوڑی۔ (جھنجھوڑی) (۱)۔ مہ [۱۵] جھنجھوڑنے کا فعل۔
 جھنجھوڑیاں دینا۔ (۱)۔ محاورہ جھنجھوڑنا۔ جگانے کے لیے زور زور سے
 ہلانا۔

جھنجھو۔ (ق)۔ ۱۔ مذکر غصہ
 جھنجھوٹیا۔ (جھنجھوٹیا) (۱)۔ صفت جھگڑاؤ۔ فساد۔ کبھیڑیا۔
 جھنجھوڑی۔ (جھنجھوڑی) (۱)۔ مہ [۱۵] سوراخ دار توپا آہنی جالی جو
 اکیلی میں راکھ کرنے کے لیے لگاتے ہیں۔ (۲) شبکہ۔ جالی (۳)
 سوراخ دار دیوار جو مساجد اور مکروں میں ہوا اور روشنی کی غرض سے
 بناتے ہیں۔

جھنجھو۔ (جھنجھو) (۱)۔ مہ [۱۵] دھات کے برتن کھڑکنے
 کی آواز۔
 جھنجھوٹنا۔ (جھنجھوٹنا) (۱)۔ مہ [۱۵] بچوں کا ایک کھلونا جس میں کھلکر
 پڑے ہوتے ہیں۔

جھنجھوٹنا۔ (جھنجھوٹنا) (۱)۔ مہ [۱۵] بچنا۔ کھڑکنا۔ جھنجھوٹنا
 ہونا۔ غصہ ٹھنانا۔ کسی عضو کے سوجانے یا سن ہو جانے سے سوتیاں
 سی چھیننا۔
 جھنجھوٹنا۔ (جھنجھوٹنا) (۱)۔ مہ [۱۵] غصے ہو جانا۔ ناراض ہونا۔
 (۲) جوش میں آنا۔

جھنجھوٹنا۔ (جھنجھوٹنا) (۱)۔ مہ [۱۵] مہ [۱۵] جھنجھوٹنا۔
 جھنجھوٹنا ہونا (۲)۔ غصہ۔ ناراضگی (۳)۔ سننا ہٹ۔ سوزش۔ جلن۔
 جھنجھوٹنا۔ (جھنجھوٹنا) (۱)۔ مہ [۱۵] غصہ۔ ناراضگی۔
 (۲)۔ جھنجھوٹنا۔

جھنجھوٹیاں۔ (جھنجھوٹیاں) (۱)۔ مہ [۱۵] بیڑیاں۔
 جھنجھوٹیاں پہنانا۔ (۱)۔ محاورہ پاؤں میں بیڑیاں ڈالنا۔ قید کرنا۔
 جھنجھوٹیاں۔ (جھنجھوٹیاں) (۱)۔ مہ [۱۵] وہ کوئی جس میں اوپر کا حصہ
 گھس جانے کی وجہ سے چھید ہو گیا ہو (۲) وہ عورت جس کی ناک چھٹی
 پھوٹی ہو۔

جھنجھوٹیاں نہ ہونا۔ (۱)۔ محاورہ مغس یا فلاش ہونا۔
 جھنجھوٹیاں۔ (جھنجھوٹیاں) (۱)۔ مہ [۱۵] چھوٹا جیلا (۲) وہ سوراخ یا
 برتن جس میں ہندو لڑکیاں کونوار کے شروع میں پربلج ہلا کر گھر گھر لگتی
 پھرتی ہیں۔

جھنجھوٹ۔ (۱)۔ مہ [۱۵] آدمیوں کی پھیڑ حیوانات کا لگتے (۲) بہت سے درخت
 جو ایک جگہ اگے ہوتے ہوں (۳) سر کے بڑے بڑے اور گھنے بال
 جو کھڑے بہتے ہوں۔
 جھنجھوٹ کے جھنجھوٹ۔ (۱)۔ مہ [۱۵] بہت سے جھنجھوٹ (۲) غول کے غول۔ ٹھٹھ

کے ٹھٹھ۔ پرے کے پرے۔ ڈھیر کے ڈھیر۔
 جھنجھوٹا۔ (جھنجھوٹا) (۱)۔ مہ [۱۵] علم۔ نشان۔ پرچم۔
 جھنجھوٹا اڑانا۔ (۱)۔ محاورہ جھنجھوٹا اڑا کرنا۔ جھنجھوٹے کو فضا میں لہرانا۔
 جھنجھوٹا اڑ کرنا۔ (۱)۔ محاورہ لوگوں کو جمع کرنے یا فوج کو ایک جگہ اکٹھا
 کرنے کے لیے جھنجھوٹا گاڑنا۔ بناوٹ یا تیغ یا فوجی کا جھنجھوٹا بند کرنا۔
 جھنجھوٹا گاڑنا (۱)۔ محاورہ (۱) جھنجھوٹا زمین میں اتارنا (۲) فتح کرنا۔ قبضہ
 کرنا۔

جھنجھوٹا اڑانا۔ (۱)۔ محاورہ (۱) فتح یا قبضہ ہونا (۲) شہرت ہونا۔ دھوم مچ
 جانا۔
 جھنجھوٹا اڑنا۔ جھنجھوٹا اڑنا۔ (۱)۔ محاورہ (۱) بادشاہ وقت یا کسی بڑے فخر
 کی موت کے موقع پر ماتم کے لیے جھنجھوٹا اڑنا۔ دینا یا جھنجھوٹے کا
 کھڑا کرنا۔

جھنجھوٹے پر چڑھانا۔ (۱)۔ محاورہ (۱) رسوا کرنا۔ بدنام کرنا (۲) کسی خاص مقصد
 سے مشورہ کرنا یا شہرت یا اہمیت دینا۔
 جھنجھوٹے پر چڑھنا۔ (۱)۔ محاورہ (۱) بدنام ہونا۔ رسوا ہونا۔
 جھنجھوٹے تیلے کا۔ (۱)۔ صفت (۱) چھپا ہوا (۲) چالاک (۳) مشہور
 برعاش۔

جھنجھوٹے نلے کی دوستی۔ (۱)۔ محاورہ (۱) اتفاقی دوستی، راستے کی دوستی
 (۲) عارضی تعلق۔

جھنجھوٹو۔ (جھنجھوٹو) (ق)۔ ۱۔ مذکر زہریلا۔ جھگ۔ کف۔
 جھنجھوٹولا۔ جھنجھوٹولنا۔ (جھنجھوٹولا۔ ڈو۔ لا۔ جھنجھوٹولا۔ نا) (۱)۔ صفت (۱)
 نوزائیدہ بچہ جس کے سر پر بال ہوں (۲) ایسا درخت جو گھٹن دار ہو
 (۳) گھونگر والے بالوں والا۔

جھنجھوٹی۔ (جھنجھوٹی) (۱)۔ مہ [۱۵] مہ [۱۵] چھوٹا کپڑا۔ کپڑا لگی ہوئی چھڑی۔
 جھنجھوٹی دکھانا۔ (۱)۔ محاورہ (۱) لائن کو لہر دینا (۲) انکار کرنا۔
 جھنجھوٹی۔ (جھنجھوٹی) (۱)۔ مہ [۱۵] مہ [۱۵] جھاڑی (۲) گھاس کا گھٹا (۳)
 درختوں کا چھوٹا جھنجھوٹ (۴) گتے یا اماج کی جڑ۔ وہ کھوٹی جو پودے

کٹ جانے کے بعد زمین میں رہ جاتی ہے (۵) کندھے میں پڑا ہوا قلاب۔
 وہ کندھے جن میں سلقے پڑے ہوتے ہوں۔ پلین اور پرہ بانڈھنے کا قلاب۔
 جھنجھوٹ۔ (جھنجھوٹ) (۱)۔ مہ [۱۵] وہ آواز جو گھونگر وغیرہ بچنے سے
 پیدا ہوتی ہے۔

جھنجھوٹکار۔ (جھنجھوٹکار) (۱)۔ مہ [۱۵] شیشے یا مٹی کے برتن ٹوٹنے
 کی آواز (۲) دھات کے برتن ٹوٹنے کی آواز (۳) تلواریں ٹوٹنے کی
 آواز (۴) پانزیب یا بھانجن کی جھنجھوٹ (۵) زنجیر یا گھوڑے کے ساز
 کی آواز (۶) کوئی ایسی آواز جس سے جھنجھوٹ کی آواز ہو (۷) جھنجھوٹ کا بولنا
 (۸) سورا کا ٹوٹنا۔

جھنجھوٹکار۔ (۱)۔ مہ [۱۵] زنجیروں کے درخت۔ اردو میں صرف جھاڑ کے ساتھ
 استعمال ہوتا ہے جیسے جھاڑ جھنجھوٹکار۔
 جھنجھوٹکارنا۔ (جھنجھوٹکارنا) (۱)۔ مہ [۱۵] سورا کا ٹوٹنا (۲) جھنجھوٹ کا بولنا (۳) شیشے

میٹھے سُرول میں لگانا۔

چھٹکوائی - (چٹنگ - وا - ای) [ق - ۱ - مٹھ] گٹھیا۔

چھٹکار - (چھن - گار) [جھ - ۱ - مٹھ] [۱۱] چیخ [۲] نوبت کی آواز [۳] چٹکارنا

چھٹکارنا - (چھن - گارنا) چٹکارنا۔

چھٹکریاں - (چھن - گریاں) [ق - ۱ - مٹھ] [۱۱] چیخ [۲] نوبت کی آواز [۳] چٹکارنا

چھٹواں - (چھو - وا) [جھ - ۱ - مٹھ] بڑا ٹوکرا۔

چھٹوپا - (چھو - پا) [جھ - ۱ - مٹھ] چھلوں یا نٹے کے پلوں کا ڈھیر۔

چھٹوت - [جھ - ۱ - مٹھ] دو مکالوں کی دیواروں کے درمیان کی گلی جس میں دونوں کے پرنا لگتے ہوں۔

چھٹوترے - (چھوت - رے) [اُر - ۱ - مٹھ] سر کے ایسے بال جنہیں بنا یا سنوارا نہ گیا ہو۔

چھٹوٹ - [جھ - ۱ - مٹھ] [۱۱] جو سچ نہ ہو۔ واقعے کے خلاف۔ حقیقت کے برعکس۔

چھٹوٹا - (چھوٹا - ہٹا) [جھ - ۱ - مٹھ] [۱۱] جو سچ نہ ہو۔ واقعے کے خلاف۔ حقیقت کے برعکس۔

چھٹوٹا بٹنا - (چھوٹا - ہٹنا) [جھ - ۱ - مٹھ] [۱۱] جو سچ نہ ہو۔ واقعے کے خلاف۔ حقیقت کے برعکس۔

چھٹوٹا بٹنا - (چھوٹا - ہٹنا) [جھ - ۱ - مٹھ] [۱۱] جو سچ نہ ہو۔ واقعے کے خلاف۔ حقیقت کے برعکس۔

چھٹوٹا بٹنا - (چھوٹا - ہٹنا) [جھ - ۱ - مٹھ] [۱۱] جو سچ نہ ہو۔ واقعے کے خلاف۔ حقیقت کے برعکس۔

چھٹوٹا بٹنا - (چھوٹا - ہٹنا) [جھ - ۱ - مٹھ] [۱۱] جو سچ نہ ہو۔ واقعے کے خلاف۔ حقیقت کے برعکس۔

چھٹوٹا بٹنا - (چھوٹا - ہٹنا) [جھ - ۱ - مٹھ] [۱۱] جو سچ نہ ہو۔ واقعے کے خلاف۔ حقیقت کے برعکس۔

چھٹوٹا بٹنا - (چھوٹا - ہٹنا) [جھ - ۱ - مٹھ] [۱۱] جو سچ نہ ہو۔ واقعے کے خلاف۔ حقیقت کے برعکس۔

چھٹوٹا بٹنا - (چھوٹا - ہٹنا) [جھ - ۱ - مٹھ] [۱۱] جو سچ نہ ہو۔ واقعے کے خلاف۔ حقیقت کے برعکس۔

چھٹوٹا بٹنا - (چھوٹا - ہٹنا) [جھ - ۱ - مٹھ] [۱۱] جو سچ نہ ہو۔ واقعے کے خلاف۔ حقیقت کے برعکس۔

چھٹوٹا بٹنا - (چھوٹا - ہٹنا) [جھ - ۱ - مٹھ] [۱۱] جو سچ نہ ہو۔ واقعے کے خلاف۔ حقیقت کے برعکس۔

چھٹوٹا بٹنا - (چھوٹا - ہٹنا) [جھ - ۱ - مٹھ] [۱۱] جو سچ نہ ہو۔ واقعے کے خلاف۔ حقیقت کے برعکس۔

چھٹوٹا بٹنا - (چھوٹا - ہٹنا) [جھ - ۱ - مٹھ] [۱۱] جو سچ نہ ہو۔ واقعے کے خلاف۔ حقیقت کے برعکس۔

چھٹوٹا بٹنا - (چھوٹا - ہٹنا) [جھ - ۱ - مٹھ] [۱۱] جو سچ نہ ہو۔ واقعے کے خلاف۔ حقیقت کے برعکس۔

چھٹوٹا بٹنا - (چھوٹا - ہٹنا) [جھ - ۱ - مٹھ] [۱۱] جو سچ نہ ہو۔ واقعے کے خلاف۔ حقیقت کے برعکس۔

چھٹوٹا بٹنا - (چھوٹا - ہٹنا) [جھ - ۱ - مٹھ] [۱۱] جو سچ نہ ہو۔ واقعے کے خلاف۔ حقیقت کے برعکس۔

چھٹوٹا بٹنا - (چھوٹا - ہٹنا) [جھ - ۱ - مٹھ] [۱۱] جو سچ نہ ہو۔ واقعے کے خلاف۔ حقیقت کے برعکس۔

چھٹوٹا بٹنا - (چھوٹا - ہٹنا) [جھ - ۱ - مٹھ] [۱۱] جو سچ نہ ہو۔ واقعے کے خلاف۔ حقیقت کے برعکس۔

چھٹوٹا بٹنا - (چھوٹا - ہٹنا) [جھ - ۱ - مٹھ] [۱۱] جو سچ نہ ہو۔ واقعے کے خلاف۔ حقیقت کے برعکس۔

چھٹوٹا بٹنا - (چھوٹا - ہٹنا) [جھ - ۱ - مٹھ] [۱۱] جو سچ نہ ہو۔ واقعے کے خلاف۔ حقیقت کے برعکس۔

چھٹوٹا بٹنا - (چھوٹا - ہٹنا) [جھ - ۱ - مٹھ] [۱۱] جو سچ نہ ہو۔ واقعے کے خلاف۔ حقیقت کے برعکس۔

نہیں ہوتے۔

چھوٹ لگانا - (۱) محاورہ (۲) سنمت لگانا (۳) غلط بیانی کر کے کان بھرنانا۔

(۳) بدگمان ہونا۔ بدگمانا۔

چھوٹ موٹ - (۱) مذ [یوں ہی - ہنسی سے - مذاق سے۔

چھوٹ موٹ کے - (۱) صفت (چھوٹے - ظاہری - دکھاوے کے لیے۔

چھوٹ نہ لوئے تو پیٹ اچھڑ جائے۔ (ایشل) جسے چھوٹ بولنے کی عادت پڑ جائے وہ چھوٹ بولے بغیر نہیں رہ سکتا۔

چھوٹا - (چھوٹا) [۱] صفت [۱] چھوٹ بولنے والا۔ سچ نہ بولنے یا تہلنے والا۔ واقعے کے خلاف بیان کرنے والا (۲) دھوکے باز۔ مکار۔ فریبی۔

دغا باز (۳) بے ایمان - کھوٹا (۴) جعلی - نقلی - مصنوعی (۵) بیکار - کام نہ دینے والا (۶) کسی کے آگے کی بچی ہوئی غمناک (۷) بڑا ہوا (۸) ہاتھ کے لیے) بابیاں۔

چھوٹا بٹنا - (۱) محاورہ (۲) چھوٹا فرودینا (۳) چھوٹ بول کر دکھانا۔

چھوٹا بٹنا - (۱) محاورہ (۲) بات سچ نہ نکلنا (۳) دروغ گو قرار پانا۔

چھوٹا بٹنا - (۱) محاورہ (۲) وعدہ خلاف ہونا (۳) استعمال کے قابل نہ رہنا۔

چھوٹا بٹنا - (۱) محاورہ (۲) غلط بیانی ثابت ہو جانا۔

چھوٹا بٹنا - (۱) مذ [مٹھ] کام کا پھوٹوں کا جوڑا (۲) وہ عروسی پوشاک جس پر چھوٹا لگا کر ہوا۔

چھوٹا بٹنا - (۱) محاورہ (۲) کسی کے آگے کی بچی ہوئی چیز چھوٹ کر جانا۔

چھوٹا بٹنا - (۱) مذ [مٹھ] بناوئی تحریر جعلی دستاویز۔

چھوٹا بٹنا - (۱) مذ [مٹھ] زری کا وہ کام جو کھڑے رصے سے نہ بنایا گیا ہو۔

چھوٹا بٹنا - (۱) چھوٹا (۲) کسی چیز میں سے چھوٹا سا کھالینا۔

چھوٹا بٹنا - (۱) محاورہ (۲) چھوٹی بچی بڑھانا (۳) سنمت لگانا (۴) کان بھرنانا (۵) بدگمان کرنا۔

چھوٹا بٹنا - (۱) مذ [مٹھ] ایسا شخص جو بہت زیادہ چھوٹ بولتا ہو۔ مہا چھوٹا۔

چھوٹا بٹنا - (۱) محاورہ (۲) کثرت سے چھوٹ بولنا۔ بہت زیادہ چھوٹ بولنا۔

چھوٹا بٹنا - (۱) مذ [مٹھ] چھوٹی باتیں (۲) چھوٹے الزامات۔ (۳) چھوٹے قصوں کا طویل بیان۔

چھوٹا بٹنا - (۱) محاورہ (۲) چھوٹی بات کر بیان یا عمل کے ذریعے سچ ثابت کرنا۔

چھوٹا بٹنا - (ایشل) چھوٹی بات بے بنیاد ہوتی ہے اس لیے جلد ہی ظاہر ہوتی ہے۔

چھوٹا بٹنا - (۱) محاورہ (۲) چھوٹ پر چھوٹ بولنا۔ بہت زیادہ چھوٹ بولنا۔

چھوٹا بٹنا - (۱) مذ [مٹھ] بے چوڑے و کراؤ کار جو سب چھوٹ ہوں۔

چھوٹا بٹنا - (۱) محاورہ (۲) ایسا شخص جو بڑی کثرت سے چھوٹ بولتا ہو۔

چھوٹا بٹنا - (۱) محاورہ (۲) ایسا شخص جو بڑی کثرت سے چھوٹ بولتا ہو۔

چھوٹا بٹنا - (ایشل) چھوٹ بولنے والے کا میاں۔

چھوٹا بٹنا - (۱) محاورہ (۲) ظاہر داری سے دریافت حال کرنا۔

چھوٹا بٹنا - (ایشل) بہت زیادہ بخوس یا پرلے درجے

جھوک مارنا۔ (۱۔ محاورہ) کولتے ہیں ترازو کی ڈنڈی کو چیز کی طرف جھکانا۔ کم توٹنا۔

جھوکا۔ (جھوکا) [ھ۔ ۱۔ مذ] (۱) ہوا کا ایسا بریل جس سے دھککے: بیندگی وجہ سے گرنے لگنا۔ غنودگی۔

جھوکا۔ (ق) [ھ۔ ۱۔ مذ] خوشہ۔

جھوکنا۔ (جھوک۔ نا) [ھ۔ مص] (۱) ڈالنا۔ پھینکنا۔ ننور یا بھلاؤ کو

ایندھن ڈال کر گرم کرنا (۲) برہاؤ کرنا۔ نغول خرچ کرنا۔ (۳)

بڑی جگہ شادی کرنا (۴) ہلاکت میں ڈالنا (۵) نشاہ باندھنا۔

(۶) روک ڈالنا۔ ڈنگلانا۔

جھوکے۔ جھوک۔ جھینک جھینک کر (ق)

جھول۔ (ھ۔ ۱۔ مذ] (۱) ڈھیلا پن۔ جرس۔ سلوٹ۔ چستت یا سوزوں نہ

ہونا۔ پورا نساؤ نہ ہونا (۲) اٹھنے کا جھوٹے جھوٹے چلنا۔ سیدھا

نہ چلنا (۳) ملع۔ کھٹ (۴) ایک دفعہ کسی بچوں کا جنمنا۔

جھول آنا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) ڈھیلا پڑنا۔ چست نہ رہنا (۲) بھینس کا

بیاسنے کے قریب ہونا۔

جھول پٹھانا۔ (۱۔ محاورہ) مرغی کے نیچے بچے نکلنے کے لیے

اندھے پٹھانا۔

جھول پڑنا۔ (۱۔ محاورہ) کپڑے کا جسم پر ٹھیک نہ آنا۔ (۲) کسی چیز

کا ڈھیلا پڑنا۔

جھول پھیرنا۔ (۱۔ محاورہ) ملع کرنا۔ ملع پڑھانا۔

جھول چھال۔ (۱۔ مذ] (۱) ڈھیل ڈھال۔ اتقا (۲) وقفہ۔

جھول دار۔ (۱۔ ف۔ صفت) جس میں جھول ہوں۔ جس میں شکنیں

یا ڈھیلا پن ہو۔

جھول ڈالنا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) پھینکا (۲) ٹھیکیں ڈالنا (۳) ڈھیلا کرنا۔

جھول نکالنا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) مرغی کا بچے نکالنا (۲) ٹھیک یا ڈھیلا پن دُور

کرنا۔

جھول [ھ۔ ۱۔ مٹ] (۱) ہاتھی یا دوسرے حیوانات پر ڈالنے کا کپڑا (۲)

ڈھیلا ڈھالی پوشاک۔

جھولا۔ (جھول۔ لا) [ھ۔ ۱۔ مذ] درخت یا کسی چیز میں پڑی ہوئی رسی جس

پر بیٹھ کر چھولیں (۲) جھونکا۔ جھولا (ق)

جھولا جھلانا۔ (۱۔ محاورہ) کسی کو جھولے پر بٹھا کر پینگ دینا۔

جھولا جھولنا۔ (۱۔ محاورہ) جھولے پر بیٹھ کر پینگ پڑھانا۔

جھولا ڈالنا۔ (۱۔ محاورہ) جھولنے کے لیے رسی درخت یا کسی چیز میں ڈالنا۔

کابیل ہونا۔

جھولوں۔ (جھول۔ ٹوں) [آر] (۱) جھوٹ ٹوٹ۔ یوں ہی (۲) ظاہر داری یا

بناوٹ یا سخن سازی کے لیے۔

جھولوں (بات) نہ پوچھنا۔ (۱۔ محاورہ) ظاہر داری یا دکھاوے کے

لیے بھی نہ پوچھنا۔ ظاہری مدارات بھی نہ کرنا۔ اوپری دل سے بھی توجہ

نہ کرنا۔

جھولوں مٹنے نہ چھوٹنا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) نام کو بات نہ کرنا (۲) ذرا بھی

پراسان حال نہ ہونا (۳) خاطر میں نہ لانا۔ بالکل توجہ نہ کرنا۔

جھوٹ۔ جھوٹھا۔ (۱۔ مذ) بچی کچی خوراک۔ پس خوردہ۔

جھوٹی۔ (جھو۔ ٹی) [ھ۔ صفت] (۱) ایسی بات جو سچ نہ ہو۔ خلاف واقعہ

بات (۲) جھوٹ بولنے والی عورت۔

جھوٹی بات بنانے پانی میں آگ جلا لے۔ جھوٹی بات بناوے

پانی میں آگ لگاوے۔ (۱) پھیل، عیار آدمی کے بارے میں کہتے ہیں کہ

وہ جھوٹ بول کر ناممکن کو بھی ممکن بنا سکتا ہے۔

جھوٹی زبان وینا۔ (۱۔ محاورہ) جھوٹا وعدہ کرنا۔

جھوٹی پستی (رکنا) یا کھنا۔ (۱۔ محاورہ) جھوٹی باتیں بیان کرنا۔

جھولتے۔ (۱۔ ع۔ مٹ) غلط سوگند۔ صفت و رواج۔

جھوٹی مہندی۔ اتنی ہوتی یا استعمال شدہ مہندی۔ ایک دفعہ کی

گائی ہوئی مہندی۔

جھوٹھا۔ (جھو۔ جھا) [ھ۔ ۱۔ مذ] معدہ (۲) موٹا آدمی۔

جھوٹھرا۔ جھوٹھرا۔ (جھو۔ جھ۔ را) (جھو۔ ج۔ را) [ھ۔ صفت] لٹوا جھوٹا

بال پڑا ہوا خشکستہ۔

جھوٹھرو۔ (جھو۔ جھ۔ رو) [ھ۔ ۱۔ مذ] ایک پود جسے اُونٹ بڑی مرغی

سے کھاتا ہے۔

جھوٹھری آواز۔ (۱۔ مٹ) چینی ہوئی آواز۔

جھوٹور۔ (ق) [ھ۔ ۱۔ مذ] چھالہ جڑ چھوٹ گیا ہو۔

جھوٹورا۔ (ھ۔ صفت) مڑھیا ہوا۔ خشک۔ پڑنہ۔

جھوٹورنا۔ (ھ۔ مص) مڑھانا۔ خشک ہونا۔

جھوٹوڑ۔ (ھ۔ ۱۔ مٹ) (۱) لڑائی جھگڑا (۲) تکرار۔ ردوبدل۔

جھوٹوڑپ۔ (ق) [ھ۔ ۱۔ مٹ] جھاڑی۔

جھونک۔ (ھ۔ ۱۔ مٹ] (۱) جھکاؤ۔ ڈھیلا پن۔ نمیدگی (۲) دھکا۔

چکولا۔ (لا۔ پچک) (۳) جھولے کی پینگ۔ نئے کی غفلت۔

(۴) ترازو کا ایک پڑا جھکا۔ (۵) تول۔ وزن۔

جھوک دینا۔ (۱۔ محاورہ) خرچ کرنا۔ لگا دینا (۲) آگ میں ڈالنا۔ (۳)

چکولا دینا۔

جھوک منبھالنا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) کسی چیز کی پچک کو روکنا۔ چکولے

کو سہارا (۲) ہوا کے) ریلے کو روکنا (۳) نقصان برداشت کرنا

(۴) کسی شخص کا خرچ اٹھانا۔

جھوک کھانا۔ (۱۔ محاورہ) اپنی جگہ سے ہٹ جانا (۲) گر پڑنا۔

کی حالت میں جھونٹا) ہلنا (۳) اُمیدوار رہنا (۴) (ایک ہی کام میں) پڑنا رہنا۔ کرتی لگی رہنا (۵) ہنڈولا۔

جھولنا۔ (جھولنا) (۱-۵) [مذ] (۱) تھیلے۔ نخرچی (۲) فقیروں کا تھیلہ جس میں وہ روٹی وغیرہ رکھتے ہیں (۳) پہلو کا گوشت۔ بچے جھولی۔ (جھولی) (۱-۵) [مذ] (۱) چھوٹی تھیلی (۲) واسن جو کچھ ہاتھ کے۔ پتے کسی کے سامنے پھیلا یا جلتے (۳) وہ کپڑا جس کے چاروں کونے باندھ کر (غیر وعینہ) گلے میں ڈال لیتے ہیں۔

جھولی بھرنے۔ (۱-۵) [مذ] (۱) کوئی چیز جھولی میں ڈالنا۔ (۲) بھرا پوری کرنا۔

جھولی بھری ہونا۔ (۱-۵) [مذ] (۱) جھولی میں بہت سی چیزیں پڑی ہونا (۲) کامیاب ہونا۔ بامراد ہونا۔

جھولی چھوڑنا۔ (۱-۵) [مذ] (۱) بدن ڈھیلا پڑ جانے سے پہلوؤں کا گوشت نکل جانا۔

جھولی ڈالنا۔ (۱-۵) [مذ] (۱) جھیک مانگنا۔ فقیری کرنا (۲) نوزائیدہ بچے کو کسی بزرگ کی گود میں دینا۔

جھوم۔ (۱-۵) [مذ] (۱) حرکت۔ ہلنا (۲) لڑانا (۳) پتوں کی ہتھت۔ (۴) جھومنا کا امر۔

جھوم جھوم کر۔ جھوم جھام کر (۱) لہرا لہرا کر۔ بل بل کر (۲) زور سے۔

جھوم جھوم۔ (۱-۵) [مذ] (۱) ہنٹھاپانی۔ چٹپٹاش (رق) جھومر۔ (جھومر) (۱-۵) [مذ] (۱) ماتھے کا ایک زیور (۲) ایک قسم کا تاج جو ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر اور حلقہ بنا کر ناچا جاتا ہے (۳) ایک گیت (۴) مجمع۔

جھومر کا چاند۔ (۱-۵) [مذ] (۱) سونے یا پانندی کا وہ گول مرتع گولہ جو جھومر میں لگا ہوتا ہے۔

جھومنا۔ (جھومنا) (۱-۵) [مذ] (۱) جسم اور سر کو ہلانا۔ لڑانا (۲) لڑکھانا۔ ہاتھی کی طرح جلتے جلتے چلنا (۳) اونگھنا (۴) نکلنے کی حالت میں آہستہ آہستہ چلنا (۵) (باورں) کا جمع ہونا (۶) مستانہ چال چلنا۔

جھومنا۔ (جھومنا) (۱-۵) [مذ] (۱) چھدر لٹا ہوا کپڑا (۲) عمدہ قسم کی چھالیا۔

جھومنا۔ (جھومنا) (۱-۵) [مذ] (۱) چلانا (۲) مارنا (۳) بیان کرنا۔ دکھڑا ہونا (۴) (پن) دھان۔

جھونپڑا۔ (جھونپڑا) (۱-۵) [مذ] (۱) چھپر یا چھوس کا کپڑا مکان۔ جھونپڑوں میں رہنا محلوں کے خواب و بیکھنا۔ (دش) حیثیت نیچی۔ تیالانت اونچے۔

جھونپڑی۔ (جھونپڑی) (۱-۵) [مذ] (۱) جھونپڑا کی تصنیف چھپری۔ چھوس کا چھونا سا گھر (پن) جھکی۔

جھونٹا۔ (جھونٹا) (۱-۵) [مذ] (۱) پنگ پنگ سے جھونے کا آگے پیچھے حرکت کرنا (۲) عورت کے سر کے بال (۳) بھینس کا بچہ۔

جھونٹا لینا۔ (۱-۵) [مذ] (۱) پنگ لینا۔ جھونے میں بیٹھنے کے بعد پاؤں کا پتھر زمین پر مار کر (دوسرے جھونٹا)۔

جھونٹے پکڑنا۔ عورت کے سر کے بال پکڑنا۔ بال نوچنا (لڑنے کے لیے)۔

جھونٹے کھسونا۔ سر کے بال نوچنا۔ سر کے بال پکڑ کر جھٹک دینا۔

جھونٹا جھاننا۔ (جھونٹا) (۱-۵) [مذ] (۱) جھاننا۔ (۲) عورتوں کا ایک دوسرے کے بال پکڑ کر کھینچنا۔

جھونٹی کانی۔ (۱-۵) [مذ] (۱) منڈی کانی۔ عورتوں کی گالی۔

جھونج۔ (جھونج) (۱-۵) [مذ] (۱) خواہش۔ چسکا (۲) کھجلی۔ خارش۔ (۳) گھونٹلا۔

جھونج مارنا۔ (۱-۵) [مذ] (۱) کھجلی ہونا۔ (۲) چیل ہونا۔ خواہش کا ستانا۔

جھونجیل۔ (جھونجیل) (۱-۵) [مذ] (۱) جھون۔ جھون۔ جھن (۲) [مذ] (۱) [مذ] (۱) غصہ۔ جھنجھلاہٹ۔

جھونجیل اتارنا۔ (۱-۵) [مذ] (۱) غصہ اتارنا۔ (۲) عداوت نکالنا۔

جھونک۔ (۱-۵) [مذ] (۱) دیکھنے جھوک۔

جھونک آنا۔ (۱) بیندیا اونگھ آنا۔ (۲) لڑکھڑانا۔ ڈگ لگانا (۳) نشے میں ہونا۔

جھونکا۔ (جھونکا) (۱-۵) [مذ] (۱) دیکھنے جھوکا۔

جھونکے آنا۔ (۱-۵) [مذ] (۱) بیندیا آنے کی وجہ سے سر کا بار بار جھنکنا۔ بیند کے جھونٹے آنا۔

جھونکے چلنا۔ (۱-۵) [مذ] (۱) ہوا کا تیز چلنا۔

جھونکے کھانا۔ (۱-۵) [مذ] (۱) لغزش کھانا۔

جھونکے لینا۔ (۱-۵) [مذ] (۱) جھنپ کرنا۔

جھونکیا۔ (۱-۵) [مذ] (۱) صفت) بھٹی میں آئینہ من ڈالنے والا۔

جھینپ۔ (۱-۵) [مذ] (۱) شرمندگی۔ ندامت۔ شرمساری۔

جھینپ پڑھنا۔ (۱-۵) [مذ] (۱) شرمندگی محسوس کرنا۔

جھینپ مٹانا۔ (۱-۵) [مذ] (۱) شرمندگی دور کرنا۔

جھینپنا۔ (جھینپنا) (۱-۵) [مذ] (۱) جھینپ۔ نا۔ جھینپ۔ نا) (۲) [مذ] (۱) شرمانا۔ بھانا۔ آنکھ پڑانا۔

جھینپنا۔ (جھینپنا) (۱-۵) [مذ] (۱) [مذ] (۱) کم ہونا۔ گھٹنا (۲) کمزور ہونا۔ (۳) پیلا پڑ جانا۔

جھیرا۔ (جھیرا) (۱-۵) [مذ] (۱) چشمہ۔ سوتا (۲) وہ غاریا سونکا کنواں جس میں اکثر تیز ترستے ہیں۔

جھیر جھیر۔ (۱-۵) [مذ] (۱) صفت) آنکھوں سے ٹپکے۔ پارہ پارہ۔ وجہی وجہی۔ پڑزے پڑزے۔

جھیل۔ (۱-۵) [مذ] (۱) جمع۔ جھیرمٹ۔

جھیل - [دھ - ۱ - مرث] (۱) پانی کا وہ قطعہ جو چاروں طرف نشکی سے بھرا ہوا ہو (۲) دُکڑل - (۳) نیچی زمین جس پر پانی کھڑا ہو - (۴) گیت کے وہ بول جو مدغم آواز سے ادا کیے جاتے ہیں۔
 جھینلا - (جھے - لا) [ق - ۱ - مذ] مالا۔
 جھیلنا - (جھیل - نا) [ہ - مص] [۱] برداشت کرنا - اٹھانا - سہارنا (۲) پچانا - ہضم کرنا۔
 جھیلنی - (جھیل - نی) [دھ - ۱ - مرث] ایک زیور بڑی دار ہوتا ہے اور سر کے بالوں میں اس لیے اٹکایا جاتا ہے کہ کانوں کے زیور کو گنجانے سے۔

جھیلنی دینا - (جھیل - نی - دے - نا) [دھ - محاورہ] بچہ ہوتے وقت بچہ کو ایک خاص ترکیب سے بلانا بھلانا۔
 جھینکنا - (جھینک - نا) [دھ - مص] [۱] شکایت کرنا (۲) دکھ ٹارونا۔ مصیبت کا حال بیان کرنا (۳) رونا دھونا - ماتم کرنا (۵) پچھتانا۔
 جھینکا - (جھین - گا) [دھ - ۱ - مذ] ایک قسم کی چھوٹی پھلی۔
 جھینگر - (جھین - گر) [دھ - ۱ - مذ] ایک قسم کا کیرا جو نمی کی وجہ سے کونوں کھردوں میں پیدا ہوجاتا اور کپڑے وغیرہ کو چاٹ جاتا ہے۔

ج - ۶

جہتی - (ج - ای) [دھ - ۱ - مرث] (۱) چوڑا جو (۲) چاول کی چھوٹی ہوئی پلو۔

ج - ی

جی - [ج - ہاں] (۱) ہاں - بے (۲) جناب - صاحب - حضرت (۳) درست - بجا - (کسی نام کے بعد) بطور تعظیم یا اظہارِ قریب و محبت (۵) طنزاً بیشک ایسا ہی ہے (جب کہنے والے کا خیال یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہے)
 جی حقور - (دکھ - ایجاب) بڑے یا بزرگ آدمی کے بلائے پر جواب میں کہتے ہیں۔
 جی حضور - (۱) صفت - خوشامدی - کاسر لیس - ہاں میں ہاں ملانا۔
 جی کننا - (۱) محاورہ) ہر معاملے میں اتفاق ملنے - خوشامد۔
 جی کوچی سٹو - (مش) عورت کرنے سے عزت ہوتی ہے۔
 جی ہاں - (۱) بلکہ کسی کے جواب میں کہتے ہیں۔ (۲) طنزاً) ہم اصل سیتھت جانتے ہیں۔
 جی - [دھ - ۱ - مذ] [۱] جان - روح - دم - سانس - پران (۲) زندگی - عمر

(۳) دل - من - طبیعت (۴) خود - آپ - شخصیت (۵) جرات - دردی - حوصلہ - مردانگی (۶) جانور - حیوان - ذی روح - (۷) طاقت - قوت

(۸) محبت
 جی آجانا - (جی - آنا) - (۱) محاورہ) (۲) دل آجانا - عاشق ہونا - دل مانگنا۔
 جی اٹکنا - (۱) محاورہ) محبت ہونا - دل کا کسی کی محبت میں اُلجھ کر رہ جانا۔

جی اٹھنا لینا - اٹھانا - (۱) محاورہ) (۲) بیزار ہونا (۳) محبت ترک کرنا۔
 جی اٹھنا - (۱) محاورہ) (۲) لذہ ہو جانا (۳) بیزار ہونا (۴) کسی کام کے لیے دل نہ چاہنا۔

جی اچٹ جانا - (جی اچاٹ ہو جانا) - (۱) محاورہ) کسی کام سے بیزار ہوجانا - دل نہ لگانا - دل برداشتہ ہونا۔

جی اچھا ہونا - (۱) محاورہ) (۲) طبیعت اچھی ہونا (۳) بیار کا رُو بہ صفت ہونا۔

جی آداس ہونا - (د - صفت) (۱) دل گھبرانا (۲) افسردہ ہونا۔
 جی اگنا جانا - (۱) محاورہ) دل بے زار ہوجانا۔ طبیعت نہ لگانا۔ کسی کام سے دل ہٹ جانا، کوئی کام اتنی زیادہ مرتبہ کرنا کہ اس کام کو مزید کرنے کو جی نہ چاہے۔

جی الٹ جانا - (جی اُلٹنا) - (۱) محاورہ) (۲) دل گھبرانا - دل پریشان ہونا (۳) دیوانہ یا پاگل ہوجانا۔
 جی امانڈ آنا - (دیکھو جی بھڑانا)۔

جی اُلجھنا - (۱) محاورہ) اُلجھن محسوس کرنا۔ گھبرانا۔ پریشان ہونا۔
 جی اندر سے ملیٹھا جانا - (۱) محاورہ) طبیعت کا گرا جانا۔ دل گھبرانا۔
 جی اوپر تلے ہونا - (۱) محاورہ) متلی ہونے آئے کو ہونا۔ (۲) دل کا گھبرانا۔

جی باغ باغ ہونا - (۱) محاورہ) دلی خوشی ہونا۔
 جی بلینا - (۱) محاورہ) (۲) دل ہلنا (۳) دھیان اور طہوت ہوجانا۔
 جی بچھ جانا - (۱) محاورہ) افسردہ ہونا - دل سرد ہونا - ولولہ باقی نہ رہنا۔

کوئی خواہش یا ارمان دل میں نہ رہنا۔
 جی بکینا - (۱) محاورہ) بیماری یا کسی حادثے سے مرتے مرتے بچ جانا۔
 جی بجال ہونا - (۱) محاورہ) طبیعت ٹھیک ہونا - بیماری کا اثر دور ہونا۔

جی بڑا کرنا - (۱) محاورہ) (۲) ناخوش ہونا - ناراض ہونا - بڑا ماننا۔ (۳) فتنے کرنا - اُگلنا۔

جی بڑا ہونا - (۱) محاورہ) (۲) طبیعت بگڑنا - دل بگڑنا (۳) ناخوش یا رنجیدہ ہونا۔

جی بڑھانا - (۱) محاورہ) (۲) جہمت افزائی کرنا - حوصلہ بڑھانا۔
 جی بڑھنا - (۱) محاورہ) (۲) جہمت ہونا (۳) دل خوش ہونا۔

جی بھڑنا - (جی بکھڑنا) - (۱) محاورہ) جی بکھڑنا - (۱) محاورہ) متلی معلوم ہونا۔ دل بیٹھنا - غصن آنا۔

جی بند ہونا - (۱- محاورہ) گھبراہٹ ہونا۔ دل زکنا۔
جی بھاری کرنا - (۱- محاورہ) رنجیدہ ہونا۔ غمگین ہونا (۲) دل پر

بوچھ ڈالنا (۳) رونادھونا۔
جی بھگتنا - (۱- محاورہ) (۱) دل کو کسی چیز کی تلاش یا خواہش ہونا (۲)
یکسوئی یا قرار نہ ہونا۔

جی بھرا آنا - (۱- محاورہ) (۱) رونا آجانا (۲) ترس یا رحم آنا (۳) دل کا درؤ
ہونا۔

جی بھڑکنا - (۱- محاورہ) (۱) بار بار رونے کو جی چاہنا (۲) آنکھوں
میں آنسو بھر آنا (۳) ہمت زیادہ ترس یا رحم آنا۔

جی بھڑکنا - (۱- محاورہ) کسی چیز کے لیے دل لگانا۔ رغبت محسوس کرنا۔
جی بھڑکانا - (۱- محاورہ) (۱) سیر ہو جانا (۲) اگنا جانا۔

جی بھر کر - سیر ہو کر - حسبِ خواہش - پوری طرح۔
جی بھلنا - (۱- محاورہ) دل لگنا، مشغول ہو جانا، دلچسپی ہو جانا۔

جی بیٹھا جانا - (۱- محاورہ) نڈھال ہونا۔ ادا ہونا۔
جی بیزار ہونا - (۱- محاورہ) لڑکی سے تنگ ہونا۔

جی پرین جانا - (۱- محاورہ) سخت تکلیف ہونا۔ شدید اضطراب ہونا۔
صدور ہونا۔

جی پرکھینا - (۱- محاورہ) جان خطرے میں ڈالنا۔ جوکھوں میں پڑنا۔
جی پڑنا - (۱- محاورہ) (۱) جان پڑنا (۲) کیرے پڑنا (۳) خیال لگا رہنا۔

(۴) تسلی ہونا۔
جی پاک جانا - (۱- محاورہ) (۱) برداشت کی حد ہو جانا۔ عاجز یا تنگ

آہانا (۲) دکھی ہونا۔
جی کپڑ لینا - (۱- محاورہ) (۱) دل ختم لینا (۲) کسی چیز کا اپنی طرف

متوجہ کر لینا۔
جی کھینا - (۱- محاورہ) دل آنا۔ مالک ہونا۔

جی کھینٹ جانا - (۱- محاورہ) سخت صدمہ پہنچنا۔ نفرت ہو جانا (۲)
محبت میں فرق آجانا۔

جی کھینٹنا (پھر جانا) پھرتا - (۱- محاورہ) اگنا جانا۔ بے زار ہو جانا۔ نفرت
کرنے لگنا۔ کھن آنے لگنا۔

جی کھینٹنا - (۱- محاورہ) دل آنا۔ طبیعت کا مالک ہو جانا۔ عاشق ہونا۔
جی کھینکا ہونا - (۱- محاورہ) بے زار ہونا۔ گرم جوشی گھٹنا۔

جی کھینٹنا - (۱- محاورہ) (۱) کسی چیز کے لیے دل چاہنا (۲) جو نہ ملا
ہو اس کی آرزو رکھنا۔

جی تیلے اوپر ہونا - (۱- محاورہ) (۱) گھبراہٹ محسوس کرنا۔ متلی ہونا۔
جی ٹوٹ جانا - (۱- محاورہ) (۱) بدول ہونا۔ ناامید ہو جانا۔ حوصلہ پست

ہو جانا۔
جی ٹھکانے لگنا - (۱- محاورہ) تسلی ہونا۔

جی ٹھنڈا ہونا - (۱- محاورہ) (۱) خوش ہونا (۲) تسلی یا اطمینان ہونا۔ (۳)
آرزو یا جوس پوری ہو جانا (۴) خاطر جمع ہو جانا۔

جی جان سے (قدرا) قربان - اشار - (۱- محاورہ) شینگی یا پسندیدگی
کی انتہا ہونا (۲) صرفت عاشق - شہید۔

جی جانا - (۱- محاورہ) (۱) جان جانا۔ (۲) لڑکھانا (۳) لڑکھانا۔ کام میں جانا۔
جی جانا ہے - (۱- محاورہ) (۱) دل ہی کو معلوم ہے کہ کیا گزری ہے (۲)
جو تکلیف یا آرام پہنچا اس کا دل پر گہرا اثر ہے۔

جی جلتے گھی نہ جاتے - (مث) اتنی زیادہ کججوشی کہ خرچ بچانے کے
لیے جان دینے یا سونے پر آمادہ ہو۔

جی جھلانا - (۱- محاورہ) (۱) دل جھلانا۔ رنجیدہ ہونا (۲) تانا۔ تنگ کرنا۔
(۳) غصہ ڈالنا (۴) ناپسند بات یا حرکت سے چڑھنا۔

جی جھلنے سے ہاتھ جھلانا بہتر ہے - (مث) جسم کی تکلیف لڑکھ کی
تکلیف سے آسان ہوتی ہے۔

جی جھلنا - (۱- محاورہ) (۱) غصہ آنا (۲) حسد ہونا (۳) کبیدہ ہونا
جی جی اٹھنا - (۱- محاورہ) باغ باغ ہو جانا۔ بہت خوش ہونا۔

جی جی نکال لینا - (۱- محاورہ) اچھی اچھی چیز الگ چھانٹ لینا۔
جی چاہتا - (۱- محاورہ) (۱) لچھانا (۲) کسی چیز کی خواہش ہونا۔ مشتاق ہونا۔

جی چاہے - (۱- روتروہ) اگر مرضی ہو۔ اگر پسند ہو۔
جی چھلانا - جی چھپانا - (۱- محاورہ) (۱) کام سے چھپنا۔ جیسے حوالے کرنا۔

جی چھلا - (۱- صفت) (۱) من چھلا۔ بہادر (۲) سچی۔ باہمت (۳) پاکل۔
جی چھلا بیٹھنا - (۱- محاورہ) حوصلہ باہمت کر گزرتا۔ دل کر جانا۔

جی چھلا جانا - (۱- محاورہ) (۱) دل کھو بیٹھنا (۲) دل بیٹھ جانا۔
جی چھلانا - (۱- محاورہ) (۱) خواہش کرنا (۲) ہمت کرنا۔ دلیری دکھانا۔
رغبت نظر کرنا۔

جی چھلنا - (۱- محاورہ) خواہش پیدا ہونا۔ رغبت ہونا (۲) گھبرانا (۳)
پاکل ہونا۔

جی چھلانا - (۱- محاورہ) (۱) ہمت توڑنا (۲) ناامید کرنا (۳) عاجز کرنا۔
(۴) اگتے والے والے رویت اختیار کرنا۔

جی چھوٹ جانا - جی چھوٹنا - (۱- محاورہ) (۱) مایوس ہونا۔ ہمت ہار
دینا۔ بدول ہو جانا۔ ناامید ہو جانا۔

جی چھوڑ دینا - جی چھوڑنا - (۱) ناامید ہونا۔ ہمت ہار دینا۔
جی چھیننا - (۱- محاورہ) دل لینا۔ عاشق بنا لینا۔

جی دار - (۱- صفت) (۱) بہادر۔ من چھلا (۲) دم خم رکھنے والا۔ مضبوط
ہمت والا۔

جی داری - (۱- مرث) (۱) ہمت۔ حوصلہ۔ جرات۔ بہادری۔ دلیری
جی دکھانا - (۱- محاورہ) رنج یا صدمہ پہنچانا۔

جی دھڑکنا - (۱) خوف ہونا (۲) اختلاج قلب کا دورہ پڑنا۔
جی دھک دھک کرنا - (۱) گھبراہٹ ہونا (۲) خوف ہونا۔ ڈرنا۔

جی دھک پکڑ ہونا - (۱) کسی کام کے کرتے ہوئے ہچکچانا۔ نردو ہونا۔
جی دلہنا - (۱- محاورہ) (۱) ڈرنا۔ خوف کھانا (۲) دل دھڑکنا۔

جی دینا - (۱- محاورہ) (۱) جان دینا (۲) پیار کرنا۔ عشق کرنا۔

جھی ڈالنا - (۱- محاورہ) (۱) جان ڈالنا - زبرد کرنا (۲) محبت کرنا۔

جھی ڈوبنا - (۱- محاورہ) (۱) نہصال ہو جانا - غشی طاری ہونا (۲) دل کا کمزوری یا شدت غم سے کمزور ہو جانا - (۳) دل کا بے قابو ہونا۔

جھی کرکنا - (۱) دل گھبرانا (۲) دم لگنا (۳) آزدہ ہو جانا۔

جھی رکھنا - (۱- محاورہ) (۱) خوش رکھنا (۲) تسلی دلا سادینا (۳) لحاظ یا پاسداری کرنا۔

جھی سائیں سائیں کرنا - (۱- محاورہ) (۱) غشی کے آثار ظاہر ہونا (۲) دل کی حالت بگڑنا۔

جھی سنانا - (۱- محاورہ) کمزوری کی وجہ سے ٹھہال ہونا۔ دل بیٹھنا۔ دل پریشان ہونا۔

جھی سے اتر جانا (اُترنا) - (۱- محاورہ) نظروں سے گرجانا۔ قدر نہ ہونا۔ بے وقعت ہو جانا۔

جھی سے بیزار ہونا - (۱- محاورہ) زندگی سے تنگ ہونا۔

جھی سے جہانا - (۱- محاورہ) مرنانا۔ دم نکل جانا۔ انتقال ہو جانا۔

جھی سے جھپٹنا - (۱- محاورہ) دو آدمیوں میں لٹوٹ رشتہ دوتی قائم ہونا۔

جھی سے گزر جانا - (۱- محاورہ) مرنانا۔ جان دے دینا۔

جھی سے گھڑنا - (۱- محاورہ) کوئی بات اپنی طرف سے بنا کر کھنا۔ من گھڑت بات کہنا۔

جھی سینے میں پھینکنا - (۱- محاورہ) کسی بات کی خواہش ہونا۔

جھی شاد ہونا - (۱- محاورہ) شاد و ماں ہونا۔ (۱- محاورہ) خوش ہونا۔ مگن ہونا۔ مسرور ہونا۔

جھی شگفتہ ہونا - (۱- محاورہ) دل خوش و خرم ہونا۔ طبیعت کھلی بکھی ہونا۔ فرحان و شادمان ہونا۔

جھی غش ہونا - (۱- محاورہ) کسی پر فریفتہ ہونا۔

جھی کا بخار نہکنا - (۱- محاورہ) دل کی بھڑاس نکال لینا۔ رونے یا غصتہ کرنے سے دلی رنج دور کرنا۔

جھی کا جھجھال - (۱- محاورہ) دل کا روگ۔ وہ کام یا بات جس سے دل گھبرانا ہو۔

جھی کا دشمن - (۱- مذ) جان کا بیری۔

جھی کا زریاں - (۱- مذ) جان کا نقصان۔

جھی کا خنثار ہونا - (۱- محاورہ) آزاد ہونا (۲) کسی کا عاشق ہونا۔

جھی کا خبار - (۱- مذ) دل کی کمزورت۔ طلال۔ خبار خاطر۔

جھی کا کھنا - (۱- محاورہ) دل میں خود بخود کوئی بات آنا۔

جھی کا پھینا - (۱- محاورہ) دل کا خوف یا اندیشے کی وجہ سے دھوکنا۔ خوف معلوم ہونا۔

جھی کرکنا - (۱- محاورہ) ہمت کرنا۔ حوصلہ کرنا (۲) کسی چہرہ کو جھی چاہنا۔

جھی کڑا کرنا - (۱- محاورہ) (۱) ہمت کرنا (۲) ناگوار بات کو دل پر چب کر کے جھیل جانا۔

جھی گڑھانا - (۱) رنج دینا۔ رنجیدہ کرنا۔ ملول ہونا۔

جھی کڑھنا - (۱- محاورہ) رنج یا غم ہونا۔

جھی کو بھلی لگنا - (۱- محاورہ) اچھی معلوم ہونا۔ پسند آنا۔

جھی کو روگ لگنا - (۱- محاورہ) کوئی مکرملول لے لینا۔ کسی اکھن میں پڑنا۔

جھی کو لگنا - (۱- محاورہ) (۱) دل پر اثر ہونا (۲) اچھا معلوم ہونا۔ پسند ہونا۔

جھی کو مارنا - (۱- محاورہ) خواہشات کو ضبط کرنا۔ من مارنا۔ قناعت سے کام لینا۔

جھی کھپانا - (۱- محاورہ) (۱) محنت سے کام کرنا (۲) مرنانا۔

جھی کھٹا کرنا - (۱- محاورہ) (۱) دل بے زار ہونا (۲) تنفر کر دینا۔

جھی کھٹا مسٹھا ہونا - (۱- محاورہ) دل لچھانا۔ کسی کو دیکھ کر خواہشات اُمنڈنا۔

جھی کھٹنا ہونا - (۱- محاورہ) (۱) بیزار ہونا (۲) نفرت ہونا (۳) یاؤسی ہونا۔

جھی کھرا کھٹا ہونا - (۱- محاورہ) نیست میں فتور آنا۔ بے ایبانی پرا اترنا۔

جھی کھلنا - (۱- محاورہ) (۱) شرم و حجاب دور ہونا۔ بے باک ہونا۔

جھی کھول کر - (۱- محاورہ) فیاضی سے۔ بے دریغ۔ افراط سے۔ خوب اچھی طرح۔

جھی کھول کر خرچ کرنا - (۱- محاورہ) لٹے لٹے سے خرچ کرنا۔ کھٹے ہاتھ سے خرچ کرنا۔

جھی کھونا - (۱- محاورہ) جان ہلکان کرنا۔ جان ضائع کرنا۔ نکلیں اٹھانا۔

جھی کی آفت - (۱- مذ) دل کے لیے مصیبت۔

جھی کی امان دینا (مانگنا) - (۱- محاورہ) جان بخشی چاہنا (۲) شہری زلزلے کے آداب ننگوں میں بلون زنجیر کام استعمال ہونا تھا)۔

جھی کی جھی میں رہنا - (۱- محاورہ) دل کی حسرت یا ارمنا نہ لگنا۔ آرزو پوری نہ ہونا۔

جھی کی لگی - (۱- مذ) دل میں کسی بات کا دھیان ہونا۔ فکر۔ دھن۔

جھی گرا جانا - (۱- محاورہ) طبیعت سُست ہونا۔ دل بیٹھنا۔

جھی گھوٹا - (۱- محاورہ) جان کھو دینا۔ برباد ہو جانا (۲) عاشق ہونا۔

جھی گھیرانا - (۱- محاورہ) (۱) دل پریشان ہونا (۲) وحشت ہونا۔ (۳) دل نہ لگنا۔

جھی گھٹ جانا - (۱- محاورہ) (۱) غشش آنا (۲) نفرت کرنا۔

جھی گھٹانا - (۱- محاورہ) دل کو اپنی طرف مائل کرنا۔ دل موہ لینا۔ اسپنے پر فریفتہ کرنا۔

جھی لٹا دینا - (۱- محاورہ) پوری توجہ سے کام کرنا۔ جان کھپا دینا۔

جھی لڑنا - (۱- محاورہ) خوف یا اندیشہ ہونا۔ ڈرنا۔

جھی لگانا - (۱- محاورہ) (۱) دل بہلنا (۲) کسی کام میں دلچسپی لینا (۳) محبت ہو جانا۔

جی لگا ہونا۔ (۱- محاورہ) کسی طرف خاص طور سے دھیان ہونا۔
 جی لچکانا۔ (۱- محاورہ) مائل ہونا۔ خواہش ہونا۔ رعینت ہونا۔
 جی لوٹ جانا۔ جی لوٹنا۔ (۱) کوئی چیز حاصل کرنے کے لیے دل پھینکنا۔
 (۲) از حد اشتیاق یا آرزو ہونا۔
 جی کوٹنا۔ (۱- محاورہ) دل چھین لینا۔ عاشق کر لینا۔ فریفتہ کر لینا۔
 جی لہرانا۔ (۱- محاورہ) جی لچکانا۔ دل میں تڑنگ پیدا ہونا۔
 جی لے لینا۔ جی لینا۔ (۱- محاورہ) (۱) دوسرے کے خیالات یا اس کا عندیہ معلوم کر لینا، (۲) دل پر قابو کر لینا (۳) خواہشات کو بھوکا دینا۔
 جی مار۔ (۱- صفت) (۱) سستگین جرم۔ قتل وغیرہ (۲) خواہشات کو بھگانے والا (۳) قاتل۔
 جی مارنا۔ (۱- محاورہ) خواہشوں کو ضبط کرنا۔ خواہشات کو کچل دینا۔
 جی مثلانا۔ (۱- محاورہ) سنے آتی ہوئی معلوم ہونا۔ امثال ہونا۔
 جی مر جانا۔ جی مرنا۔ (۱- محاورہ) خواہش یا تمنا باقی نہ رہنا۔ دل مر وہ ہوجانا۔
 جی مہلانا۔ (۱- محاورہ) افسوس ہونا۔ دریغ ہونا۔
 جی ہٹنا۔ (۱- محاورہ) دل ہل جانا۔ بھیتیں مل جانا۔ ایک دل ہوجانا۔
 جی میں آنا۔ (۱- محاورہ) (۱) ذہن میں آنا (۲) جی چاہنا۔ کوئی بات خیال میں آنا۔
 جی میں آنا۔ جی میں آنا۔ (۱- محاورہ) دل میں ہٹنا۔ ذہن نشین کرنا۔ دل پر اثر کرنا۔
 جی میں ارمان رہنا۔ (۱- محاورہ) حسرت نہ کلنا۔ آرزو پوری نہ ہونا۔
 جی میں بس رہنا۔ (۱- محاورہ) ہر وقت کسی کا خیال رہنا۔
 جی میں بیٹھنا۔ (۱- محاورہ) دل پر اثر کرنا۔ دل میں اتر جانا۔
 جی میں ٹھاننا۔ (۱- محاورہ) ارادہ کرنا۔ قصد کرنا۔
 جی میں چل جانا۔ (۱- محاورہ) رکھ کرنا۔ جھک کرنا۔
 جی میں جگر ہونا۔ (۱- محاورہ) عزت ہونا۔ وقعت ہونا۔
 جی میں جی آنا۔ (۱- محاورہ) (۱) تسلی ہونا۔ جان میں جان آنا۔ دم میں دم آنا۔ بچنے کی امید ہونا۔
 جی میں جی ڈالنا۔ (۱- محاورہ) یقین دلانا۔ اپنی بات دوسرے کے دل میں اٹارنا۔
 جی میں ڈالنا۔ (۱- محاورہ) دل میں خیال پیدا کرنا۔ بات دل میں اٹارنا۔
 جی میں رکھنا۔ (۱- محاورہ) (۱) بھنیہ رکھنا۔ پوشیدہ رکھنا (۲) عداوت یا بغض یا کینہ رکھنا۔
 جی میں کھنا۔ (۱- محاورہ) دل ہی میں کوئی بات سوچنا یا منصوبہ باندھنا۔
 جی میں کھینا۔ (۱- محاورہ) (۱) دل میں پیوست ہوجانا۔ دل پر اثر کر جانا۔ (۲) بہت پسند آنا۔
 جی میں ٹھکر کرنا۔ (۱- محاورہ) (۱) دل پر اثر کر جانا۔ دل میں پھیر جانا۔ (۲) دل موہ لینا۔

جی میں لگنا۔ (۱- محاورہ) اثر کرنا۔ ذہن نشین ہونا۔ دل میں بیٹھنا۔
 جی میں مڑے لینا۔ (۱- محاورہ) خیال ہی خیال میں کھٹک اٹھانا۔
 جی نہ پھال ہونا۔ (۱- محاورہ) دل کا گرگرا ہونا۔ دل کا مفضل ہونا۔ دل پریشان ہونا۔
 جی نکلنا۔ (۱- محاورہ) (۱) دل مکمل جانا۔ مرنا (۲) بے چین ہونا۔ عاشق بننا۔
 جی ہاتھ میں رکھنا (لینا)۔ (۱- محاورہ) (۱) عرض رکھنا۔ تسلی دینا۔ دل یا افسردہ نہ ہونے دینا (۲) قابو میں رکھنا۔
 جی ہارنا۔ (۱- محاورہ) (۱) دل چھوڑ دینا۔ ہمت ہارنا (۲) کسی کام سے طےیز رہ کر باز رہنا۔
 جی ہٹ جانا۔ (۱- محاورہ) (۱) نفرت ہوجانا (۲) توجہ ہٹ جانا (۳) محبت نہ رہنا۔
 جی ہٹنا۔ (۱- محاورہ) خوف یا رحم سے دل کا ہٹنا۔
 جی ہوا ہونا۔ (۱- محاورہ) (۱) دل گھرا نا (۲) جان نکلنا۔ دم نکلنا۔
 جی ہونا۔ (۱- محاورہ) (۱) خواہش یا ارادہ ہونا (۲) زندگی باقی ہونا۔
 جی ہنر ٹول پر آنا۔ (۱- محاورہ) نزع کی حالت میں ہونا۔ دم اترنا۔
 جی بھی بھانگنا ہوگا۔ (۱- روزمرہ) دل میں ہی سمجھتے ہوں گے۔
 جی ہی جانتا ہے۔ (۱- روزمرہ) تم ہمارے ساتھ جو پرسوئی کر رہے ہو اس کو ہم خوب جانتے ہیں۔ بیان کرنے سے فائدہ؟
 جی ہی جی میں آنا میں کرنا۔ (۱- محاورہ) دل ہی دل میں خیالات پکانا۔ آپ ہی آپ باتیں کرنا۔
 جی ہے تو جہان ہے۔ (۱- روزمرہ) زندگی ہے تو سب کچھ ہے۔
 جی۔ او۔ سی۔ (G.O.C.) جنرل آفیسر کمانڈنگ کا محنت۔
 فرج کا اعلیٰ افسر۔
 جی۔ بی۔ او۔ (G.P.O.) جنرل پوسٹ آفس کا محنت۔
 شہر کا سب سے بڑا ڈاک خانہ۔
 جے۔ (۱- مؤنت) [۱] فتح۔ نصرت۔ جیت۔ ظفر مندی (۲) ترقی۔ عروج۔ اقبال (۳) توفیق۔ تسلیم۔ ترک علاج (۴) ندرائید آشا باش۔
 زندہ باد؛ مہرے۔ (۵) مسرت۔ شادمانی۔
 جے۔ [۶- صفت] جیتنے جس قدر (تعداد) ہر کرنے کے لیے) بے پتہ۔ (۱- مذ) فتح نامہ۔ ڈگری۔
 جے جے کار۔ (۵- مرث) فتح کے نعرے۔ فتح کی خوشی۔
 جے جے دستی۔ (۵- مرث) ایک راگنی جو موت کے وقت گائی جاتی ہے۔
 جیبا۔ (ج۔ یا) [۱- مذ] (۱) جہان۔ زندگی (جی ۲) پیارا۔ محبوب (۳) دانی کھلائی۔ دودھ پلانے والی۔
 جیبا گری۔ (Geography) [ج۔ یا۔ گ۔ رے۔ فی] [۱] (۱) مذ] وہ علم جس میں زمین کی قدرتی حالت اور سیاسی تقسیم کا حال بیان کیا جاتا ہے۔ جغرافیہ۔
 جیبا گری۔ (Geometrical) [ج۔ یا۔ گ۔ رے۔ فی]۔

کل [انگ۔ صفت] جغرافیے سے متعلق۔

جیالو (۱۔ صفت) بہادر، دلیر۔ جرات مند۔
جیولوجسٹ (Geologist) (رجی۔ آ۔ لو۔ جینٹ)

انگ (۱۔ مذ) علم زمین کا ماہر۔
جیولوجی (Geology) (جی۔ آ۔ لو۔ جی) [انگ۔ مرث]

وہ علم جس سے زمین کی بناوٹ اور اس کے ڈھانچے کا حال معلوم ہوتا ہے۔
جیولوجیکل (Geological) (رج۔ یا۔ لو۔ جی۔ کل)

[انگ۔ صفت] زمین کے متعلق۔ زمین کی بناوٹ اور اس کے ڈھانچے سے متعلق رکھنے والا۔
جیومیٹری (Geometry) (رج۔ یا۔ مرث۔ ری)

[انگ۔ ۱۔ مذ] وہ علم جس میں لائنوں، زاویوں اور سطحوں اور جسموں کے تعلق۔ تعلق و پیمائش کا حال بیان کیا جاتا ہے۔ علم اقدیس۔
جیومیٹریکل (Geometrical) (ج۔ یا۔ مرث۔ ری۔ کل)

[انگ۔ صفت] علم اقدیس کے متعلق۔
جیب (ج۔ ۱۔ مذ) گریبان۔ سینہ۔ پیرا۔

جیب [آر۔ ۱۔ مرث] پاکٹ۔ وہ ٹھیلے جو کڑے، کوٹ یا واسکٹ میں لگاتے ہیں۔ کیسا۔ دامن۔
جیب خاص (۱۔ مذ) بادشاہ کا ذاتی خرچ، خزانے کی وہ رقم جو صرف بادشاہ کے مصروف میں آئے۔

جیب خالی ہو جانا، ہونا (۱۔ محاورہ) کچھ پاس نہ رہنا۔ ساری نقدی ختم ہو جانا۔
جیب خرچ (۱۔ مذ) اوپر کا خرچ۔ ایسا خرچ جو مقررہ اخراجات کے علاوہ ہو۔ چھوٹے موٹے اخراجات کی رقم۔

جیب کٹرا (۱۔ مذ) دوسروں کی مجلسیں کاٹ کر نقدی نکالنے والا۔
جیب کٹنا (۱) کسی کی جیب کاٹ کر رقم نکالنا (۲) ناجائز نفع لینا۔
جیب کھڑی (۱۔ مرث) جیب میں رکھنے کی چھوٹی کھڑی۔ جیبی گھڑی۔

جیب میں پڑے ہونا (۱۔ محاورہ) قابو میں ہونا۔ کوئی اہمیت نہ رکھنا۔
جیب میں نہیں دلنے بڑھیا چلی بھنانے۔ جیب میں نہیں کھل، چھیل پھیرے گلی گلی۔ (دش) غریبی یا مفلسی یا تنگ دستی میں خود کو ایر نظر کرنا۔

جیبی (جے۔ بی) [آر۔ ۱۔ مرث] جیب کا۔ جیب کے متعلق۔
جیبی (۲) چھوٹی۔

جیبی زوال (۱۔ مذ) جیب میں رکھنے کا زوال۔ چھوٹا سا زوال۔
جیبی گنا۔ ایک رقم کا بہت چھوٹا گنا۔
جیبی کتاب۔ اتنی چھوٹی کتاب کہ جیب کے اندر آجائے۔

جینٹ (۱۔ مرث) (۲۔ محاورہ) بچے کا لفظوں کو صریح یا پوری طرح ادا کرنا۔
جینٹ (۳) لڑکی جینٹ یا بساط سے زیادہ عیش و عشرت میں پڑنا۔

جینٹ (۱۔ محاورہ) (۲) خاموش کرنا (۳) بات کا شمار گفتگو میں نسل انداز ہونا۔
جینٹ سوا دینا (۱۔ مرث) چیز اتنی تنوڑی اور قلیل تھی کہ پوری طرح مزہ نہ آیا۔ زبان ہی خراب ہوئی۔

جینٹ (۱۔ محاورہ) (۲) بار۔ مال جسے بار بار۔ (دش) جرات کو۔ پنی۔ کو۔

جینٹ (۱۔ محاورہ) (۲) زبان چاٹنا (۳) چٹنا سے لینا (۴) حرص کرنا (۵) کسی ایسی چیز کی خواہش رکھنا جس کا ملنا ممکن نہ ہو۔
جینٹ (۱۔ محاورہ) (۲) زبان درازی کرنا (۳) شہی بازنا۔

جینٹ (۱۔ محاورہ) (۲) ضرورت سے زیادہ پائیں کرنا (۳) منہ چلنا۔ کھانا۔
جینٹ (۱۔ محاورہ) (۲) جو بروقت کچھ نہ کچھ کھاتا ہی رہے اس پر طنز یا بات کسی جاسکتی ہے۔

جینٹ (۱۔ مرث۔ بی) زبان صاف کرنے کا آلہ۔
جینٹ (۱۔ محاورہ) (۲) بات (کرنا) گنا۔ (۱۔ محاورہ) (۲) بات کہتے ہوئے

جینٹ (۲) پوری بات ظاہر نہ کرنا۔
جینٹ (۱۔ محاورہ) (۲) اپنے مطلب میں ہوشیار۔

جینٹ (۱۔ محاورہ) (۲) کسی اشارے سے بات کرنے سے روکنا (۳) حیران ہونا (۴) غور فرود ہونا۔
جینٹ (۱۔ محاورہ) (۲) گستاخی یا بے ادبی سے کلام کرنا۔ جواب دینا۔

بڑھ کے بات کہنا (۲) زبان درازی کرنا۔ زبان چلانا (۳) گالیاز لینا۔
جینٹ (۱۔ محاورہ) (۲) مذاق کے طور پر زبان منہ کے باہر نکالنا (۳) زبان کڑی سے کھینچ لینا۔ (۴) نکالنا یا پیاس کی شدت سے زبان باہر نکالنا۔

جینٹ کے متعلق جینٹ ہونا۔ بات پر نام نہ نہنا۔ بات کہنے کے مکر جانا۔
جینٹ (Jeep) [انگ۔ مرث] ایک قسم کی چھوٹی لمبی پھلکی موٹر گاڑی، جو مضبوط اور طاقتور ہوتی ہے۔

جینٹ (۱۔ مرث) (۲) کامیابی (۳) فتح (۴) نفع۔ فائدہ (۵) قلبہ فوقیت۔
جینٹ (۱۔ مرث) (۲) جب کوئی شخص کسی سے ہر شرط پر معاہدہ رکھنے کو تیار ہو جائے تو یہ محاورہ استعمال کرتا ہے۔

جینٹ کی ہوا بھی اچھی۔ (دش) کامیابی خواہ کتنی ہی معمولی ہو اچھی معلوم ہوتی ہے۔
جینٹ (۱۔ مرث) (۲) کامیابی بہت کرنے سے ہوتی ہے۔

جیتے جی مر جانا - (۱- محاورہ) (۱) تباہ ہو جانا - برباد ہو جانا (۲) سخت ترین صدمہ یا رنج پہنچنا - (۳) بے فیض ہونا - فائدہ نہ پہنچانا (۴) زندگی ہی میں چھوٹ جانا - (۵) کسی کام کا نہ رہنا - قدرتی صلاحیتوں سے محرومی۔

جیتے چاب چاب ہوئے داب داب - (۱) نیش (۱) زندگی بھر چنے چاچا کر گزارہ کیا اور وہی ہوئی دولت چھوڑ کر کھل بسا - بھروسہ آدمی کے بارے میں نہ کئے ہیں۔

جیتے ہیں نہ مرتے ہیں - (۱) نیش (۱) زندگی کشمکش میں ہے جوکل توکل زندگی کے دن پورے کر رہے ہیں۔

جیتتا - (رجحی بنا) [آر - صفت] (۱) جو جیت لیا گیا (۲) جس نے بازی جیتنا سو ہارا، اور ہارا سو ہوا - (۱) نیش (۱) جس نے مقدمہ جیت لیا وہ تباہ ہوا اور جو ہار گیا وہ تو سمجھو مر گیا۔

جیتتا - (رجحی بنا) [آر - صفت] (۱) فتح کرنا - (۲) غالب آنا (۳) کامیاب ہونا۔

جیتتی مانتا نہ ہاری مانتا - (۱) محاورہ) کسی طرح کوئی بات نہ ماننا۔

جیتتی مکھی نکلتا - (۱) نیش (۱) جان بوجھ کر تکلیف اٹھانا - کسی شخص کا دید و دانستہ آفت یا مصیبت میں مبتلا ہو جانا۔

جیتتی مکھی نہیں نکلتی جاتی - (۱) نیش (۱) جان بوجھ کر ایسا کام نہیں کیا جاتا جس میں نقصان ہو۔

جیتٹ طیارہ - (رجحیٹ - ٹی - یا - رہ) (Jet) [انگ - آر - ۱ - مذکر] ایک خاص ہوائی جہاز۔

جلیٹھ - (۱- ۵ - مذ) (۱) شوہر کا بڑا بیٹا (۲) ہندی سال کا دوسرا مہینہ جو ۱۵ مئی سے ۱۵ جون تک ہوتا ہے (۳) اوپر تلے رکھی ہوئی بہت سی روٹیاں (۴) پہلے پیدا ہوا ہوا۔

جیتتا چھڑا چھڑا - (۱) محاورہ) (۱) چھڑا دینا (۲) ازالہ بکارت کرنا۔

جیتتا چھڑا - (۱) محاورہ) (۱) چھڑا دینا (۲) ازالہ بکارت کرنا۔

جیتتا چھڑا - (۱) محاورہ) (۱) چھڑا دینا (۲) ازالہ بکارت کرنا۔

جیتتا چھڑا - (۱) محاورہ) (۱) چھڑا دینا (۲) ازالہ بکارت کرنا۔

جیتتا چھڑا - (۱) محاورہ) (۱) چھڑا دینا (۲) ازالہ بکارت کرنا۔

جیتتا چھڑا - (۱) محاورہ) (۱) چھڑا دینا (۲) ازالہ بکارت کرنا۔

جیتتا چھڑا - (۱) محاورہ) (۱) چھڑا دینا (۲) ازالہ بکارت کرنا۔

جیتتا چھڑا - (۱) محاورہ) (۱) چھڑا دینا (۲) ازالہ بکارت کرنا۔

جیتتا چھڑا - (۱) محاورہ) (۱) چھڑا دینا (۲) ازالہ بکارت کرنا۔

جیتتا چھڑا - (۱) محاورہ) (۱) چھڑا دینا (۲) ازالہ بکارت کرنا۔

جیتتا چھڑا - (۱) محاورہ) (۱) چھڑا دینا (۲) ازالہ بکارت کرنا۔

جیتتا چھڑا - (۱) محاورہ) (۱) چھڑا دینا (۲) ازالہ بکارت کرنا۔

فیضی بگھارنا۔

ججی - (جی جی) [ہ-۱- مرث] [۱] بہن - ہمیشہ خواہر (۲) پستان - چھاتی۔

ججیز - (ججی - ییز) [ع - صفت] [۱] خالص - گھڑا (۲) زبردست - زوردار۔
چنچہرہ - (ججی - ڈھڑ) [آر [وق] جدھر جس طرف - جس کسی بہت۔

ججینیا - (ججے - سا) [ہ - صفت] [۱] جس طرح کا - جس صورت کا (۲) جس ڈھنگ کا - جس طریقے کا - ایسا کی بند۔

ججیسا باب ویسا بٹیا - (ا - مذ) اولاد پر خاندان کا اثر ہوتا ہے۔
ججیسا بووگے ویسا کاٹوگے - (ا - ریشل) جیسے کام کر دوگے ویسا ہی ان کا پھل ملے گا۔

ججیسا ٹیسا - جس طرح یا قسم یا وضع کا ممکن ہو ویسا ہی نہ بھلا نہ بڑا۔
ججیسا تیرا لینا دینا ویسا میرا کام کاج - (ا - ریشل) جیسی مزدوری دوگے ویسا ہی کام ہوگا۔

ججیسا چلے پیے - (۱) پسند کے مطابق - جیسے کی خواہش تھی (۲) گنتا یا سوزوں (۳) موقع محل کے مطابق (۴) جیسے ہر جا چلے پیے، بھر پور۔

ججیسا ڈوودھ ویسی بڈھ - (ریشل) عقل (بڈھ) ڈوودھ (خاندان) کے مطابق ہوتی ہے۔

ججیسا دیس ویسا بھیس - (ریشل) جس ملک میں رہنے کا اتفاق ہو وہاں کے طور طریقے کی پابندی کرنی چاہیے۔

ججیسا راجا ویسی پر جا - (ریشل) جیسا حکم وقت ہوتا ہے ویسی اس کی رعایا ہوتی ہے۔

ججیسا سٹوٹی چھوڑ ویسا بچھڑ - (ریشل) چھوڑی ہر عورت میں بڑی ہی خواہ چھوٹی ہے چھوٹی چیز کی ہو یا بڑی سے بڑی چیز کی چھوڑی ہی ہے (بچھڑ بھرا ہوا کہتے ہیں)۔

ججیسا کا ٹیسا - (۱) بھڑو بھڑو نقل مطابق اصل (۲) جوں کا توں جیسا کرنا ویسا بھرنانا - جیسا کروگے ویسا بھروگے (پاؤگے) جیسا کیا ویسا پایا (ریشل) انسان جیسا کرتا ہے ویسا ہی نتیجہ نکلتا ہے۔

ججیسا کن بھرو ویسا من بھرو - (ریشل) تنھو ٹی سی چیز دیکھ کر اس کی پوری مقدار کی اچھائی بڑائی کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔

ججیسا کہ - جس طرح کہ۔
ججیسا ٹنہ ویسا ٹھپھڑ (ریشل) کوئی جیسا کام کرتا ہے ویسا ہی پھل ملتا ہے۔

ججیسا ٹنہ ویسی بات - (ریشل) انسان اپنی قابلیت اور صلاحیت کے مطابق بات کرتا ہے۔

ججیسی - (ججے - ہی) [ہ - صفت] [جس طرح - جس طرح کی جس موقع کی۔
ججیسی پڑھی ویسی سہی - (ا - ریشل) ہر طرح کی تکلیف اور مصیبت برداشت کرنا پڑی۔

ججیسی دانی آپ چھنال ویسے جانے سب ہنسا ریشل [جس آدھی کو دوسرے لوگ بھی بڑے نظر آتے ہیں۔
ججیسی رُوح ویسے فرشتے - (ریشل) انسان خود بڑا ہوتا ہے ہی جیسے بڑے لوگ اور بڑی چیزیں پسند کرتا ہے۔

ججیسی کرنی ویسی بھرنی (ریشل) جیسا کام کروگے ویسا نتیجہ ملے گا۔
ججیسی کیسے ویسی سنیسے - انسان اپنی بات کا اچھا جواب اور خراب بات کا خراب جواب پاتا ہے۔

ججیسی گئی بھیس ویسی آئیں - سچی منہ کا بوریہ لائیں - (ریشل) شادی ناکام ہوتی منقذ بچھڑتا ہے۔

ججیسی مائی ویسی جانی - (ریشل) جیسی ماں ویسی بیٹی۔
ججیسی نیت ویسی مُراو - (ا - ریشل) بڑی نیت سے کیا ہوا کام بگڑ جانا ہے۔ اچھی نیت سے کیا جانے تو سونڈتا ہے۔

ججیش - (ع - ۱ - مذ) بھکر، فوج - سپاہ - ڈل - جمع - جیوش۔
ججیشہ - (ججی - مذ) [ت - ۱ - مذ] ایک مرتع زیور جو بگڑی پر باندھا جاتا ہے۔ کلنی۔

ججیشہ - (ع - ۱ - مذ) مُراو - کڑا ہوا۔
ججی کڑ - (ججی - کڑجی گھڑ) [ہ - ۱ - مؤخف] [پانی رکھنے کا گھڑا۔
ججیل - (Jail) (انگ - ۱ - مذ) قید خانہ۔ زندان - بندی خانہ۔ محبس۔

ججیل خانہ - (ہ - ۱ - مذ) قید خانہ - زندان۔
ججیلر - (Jailer) (انگ - ۱ - مذ) جیل کا داروغہ - جیل خانہ کا سربراہ۔

ججیلٹی - (جے - لی) - [انگ - ۱ - مرث] [ایک قسم کی غذا جو گوشت اور پھلوں سے تیار کی جاتی ہے (Jelly)۔
ججیلٹی - (جے - لی) [ہ - ۱ - مرث] [گاس اکٹھی کرنے کا تین شانوں والا آلہ (۲) معدے یا پیٹ کے اوپر کی چربی دانہ پھیل۔

ججیلن - (س - ۱ - مذ) [ہندوستان کے ایک مذہب کا نام جو پانچویں صدی قبل مسیح میں نکلا تھا۔
ججینیا - (ججی - نا) [ہ - مرث] [۱] زندہ رہنا (۲) زندگی گزارنا - زندگی بڑھتے۔

ججینے سے ہینگ (آنا) - ہونا - (۱ - محاورہ) زندہ رہنے کو ہی نہ چاہنا۔
ججینے کی وجہ سے زندگی سے بیزار ہو جانا۔

ججینے کے لالے پڑنا - (۱ - محاورہ) زندگی کی امید نہ رہنا۔
ججینی - (جے - نی) [س - ۱ - مذ] [کما جین مت کا ماننے والا۔

ججینیس - (Genius) (ججی - نی - آئن) [انگ - صفت] [آبائے، عقل و ذہانت - نہایت ہوشیار اور ذہین - اسلئے تخلیقی صلاحیتوں کا مالک۔

ججیو - (س - ۱ - مذ) [۱] زندگی - حیات (۲) رُوح (۳) جاندار - زندہ - (۴) محبوب۔

جیوٹرا جانا - جیوٹرا نکلنا - (ہ- عاوردہ) (ق) مرانا۔
 جیوٹرا دہل جانا - (ہ- عاوردہ) (ق) ڈر جانا۔
 جیوٹری - (جیو- ٹری) [ھ- ارمٹ] رسی - ڈوری۔
 جیوٹس - (ج- ا- مذ) دیکھتے ہیں، جس کی یہ جمع ہے۔
 جیومیٹری - (Jeometry) [انگ- ہسٹ] علم ریاضی کی ایک شاخ۔
 جیوٹ - (حرف تشبیہ) مانند - مثل - جوں -
 جیون - (جی- ون) (ہ- ا- مذ) زندگی - وجود۔
 جیوسے میرا بھائی - گلی گلی بھرجانی - (ایش) بھائی زندہ رہے۔ بھارت
 کی کمی نہیں۔

جیو آتما - روح - جان۔
 جیوٹش - (س- ا- مذ) علم نجوم۔
 جیووان - جان کی قربانی۔
 جیوٹ - (جی- وٹ) [ہ- صف] (۱) دلیر - بہادر - جی وار (۲) شجاعت۔
 جیوٹ کرنا - (ہ- عاوردہ) ہمت کرنا - دلیری دکھانا۔
 جیوٹ - (Jute) - (ج- یوٹ) [انگ- ا- مذ] پٹن۔
 جیورے (Jury) (جیو- رے) [انگ- ا- ہسٹ] چیدہ اشخاص کی وہ جماعت جو مقدمے کی سماعت میں عدالت کی امداد کرتی ہے۔
 جیوٹرا - (جیو- ٹرا) [ہ- ا- مرٹ] [۱] دل - جی (۲) مرضی - خوشی - ہنسا۔
 (۳) وہ اناج جو کیروں کو دیا جاتا تھا۔

چ

چ (پے) (ف) (امٹ) (اُردو کا آٹھواں فارسی کا ساتواں اور ہندی کا چھٹا حرف) سے جیم فارسی بھی کہتے ہیں۔ عربی میں یہ حرف نہیں ہے۔ حروفِ بید میں یہ جیم سمجھا جاتا ہے اور اس کے تین عدد ہی شمار کیے جاتے ہیں۔ اس کی آواز نالو سے نکلتی ہے۔

چ — ۱

چاٹ - (دہ-۱-۱) مسٹ (۱) زبان کا ذائقہ تبدیل کرنے کی عرصہ سے کسی چٹ پٹی یا لذیذ چیز کا استعمال (۲) چمکا (۳) عادت۔ لپکا (۴) خواہش۔ آرزو (۵) چائنا کا امر۔ چاٹ پر لگانا۔ کسی کو مزے سے آگاہ کرنا۔ کسی چیز کا عادی بنا دینا۔
 چاٹ پڑنا۔ چمکا پڑ جانا۔ لت پڑنا۔
 چاٹ جانا۔ زبان سے چاٹ چاٹ کر کھا جانا۔ صاف کر دینا۔ سب کھا جانا۔ ختم کر دینا۔
 چاٹ دینا۔ لالچ دینا۔
 چاٹ لگنا۔ چمکا پڑنا۔ عادت پڑنا۔
 چائٹنا۔ (چاٹ۔ نا) (دہ-۱-۱) کسی ریتیم چیز کو زبان سے اٹھانا کھانا۔ (۲) بڑبھننا۔ چٹ کرنا۔
 چائی۔ (چائی) (دہ-۱-۱) مسٹ (دودھ کی لائٹی) مٹی کا بڑا برتن جس میں دہی بولتے ہیں۔
 چاٹیا۔ (چاٹ۔ یا) (دہ-۱-۱) مسٹ (۱) چٹورا (۲) بہت کھانے والا (۳) حویلی۔ لالچی۔
 چاچا۔ (دہ-۱-۱) مذ باب کا چھوٹا بھائی (بچا)۔
 چچا پچر۔ (چاچر) (دہ-۱-۱) مذ (۱) خوشی کا گانا اور ناچ (۲) خوشی کے گیت۔ (۳) ہولی کے موقع پر ڈنڈے سے بجانا اور اس کی آواز کے ساتھ ناچنا اور گانا (۴) ایک میلہ جو ہولی کے بعد ہوتا ہے۔
 چاچی۔ (چاچی) (دہ-۱-۱) مسٹ (۱) چمکی کی بیوی بچی۔
 چادر۔ (چا۔ در) (ف) (۱) مسٹ (۱) مستطیل اور مربع مگر دبیز کپڑا جو سر کے اوپر یا دوپٹے کی جگہ لیا جائے (۲) پانگ پر پھانے کا کپڑا (۳) شال (۴) چادر کی شکل کی لڑیوں میں گندھے ہوئے پھول جو قبر پر ڈالے جاتے ہیں (۵) کسی دھات کے لیے چوڑے اور پتلے ٹکڑے یا پترے (۶) پانی کی چوڑی دھار۔
 چادر اُتارنا۔ (۱) محاورہ (عزت اُتارنا۔ عورت کو بے پردہ کرنا۔
 چادر اُڑھانا۔ (۱) محاورہ (۱) کسی کے سر پر چادر ڈالنا (۲) بیوہ سے نکاح کرنا۔
 چادر پھاننا۔ (۱) مسٹ۔ (۲) فرش یا پانگ پر چادر ڈالنا۔
 چادر پڑنا۔ (۱) محاورہ (۲) پوشیدہ ہونا۔
 چادر تان کر سونا۔ (۱) محاورہ (۱) بے فکر ہو کر سونا (۲) المینا سے زندگی گزارنا۔
 چادر تھوڑی پاؤں پھیلائے بہت۔ (۱) اضل (آمدنی کم اور خرچ زیادہ ہونا۔
 چادر جوڑا۔ (۱) پیشینے کی دو چادریں (۲) دہری شال۔
 چادر پڑھانا۔ (۱) محاورہ (۱) کسی بزرگ کے مزار پر کپڑے یا پھولوں کی چادر ڈالنا۔
 چادر پھول۔ (۱) مذ (۲) بچوں کا ایک میل جس میں دو گروہ بنتے ہیں۔ ایک گروہ کے کسی لڑکے کو چادر میں لپیٹ کر بٹھا دیتے ہیں اور دوسرے گروہ کے لڑکوں سے اس کا نام دریافت کرنے میں لگ بھگ بتا دیا جائے تو بتلنے

چا۔ (دہ-۱-۱) مذ چاؤ۔ چاہ۔
 چاب۔ (دہ-۱-۱) مسٹ (۱) رواج تھا کہ جب کوئی سفر سے واپس آتا تو اس کے نئے والے دھوئے تل، چاول اور شکر سینوں میں لٹکا کر بیٹھتے تھے اور اسے چاب کہا کرتے تھے (۲) چائی چائولی چیز (۳) مذ کا پڑھا ہوا (۴) چائنا کا امر۔
 چابک۔ (چابک) (ف) (صفت) (۱) مذ (۱) تیز۔ پھرتیلا۔ چست۔ چالاک ہتیار۔ چوکتا (۲) کوڑا۔ تازیانہ۔ ہتھیار۔ قبی۔
 چابک خرام۔ تیز رفتار۔ تیز رو۔
 چابک دست۔ (۱) وہ آدمی جو ہاتھ کے کام میں چالاک ہو (۲) مشتاق (۳) خوبصورت چابک دستی۔ چالاک۔ ہتھیاری۔ کاریگری۔
 چابک سوار۔ گھوڑا سدا بننے والا۔ گھوڑا درست کرنے والا۔ ماہر اور مشتاق گھوڑا سوار۔
 چابک سواری۔ گھوڑے پھیرنے یا سدھانے کا ہنر یا پیشہ۔
 چابک عنال۔ (۱) تیز دوسوار (۲) تیز گھوڑا۔
 چابکوں سے اُڑا دینا۔ چابک سے بہت مارنا۔
 چابکی۔ (چابک) (ک) (ف) (۱) مسٹ (۱) چالاک۔ تیزی۔ پھرتی۔ جلدی۔ چپٹا۔ چابنا۔ (چاب) (نا) (دہ-۱-۱) مسٹ (۱) چٹانا۔
 چابی۔ (چابی) (دہ-۱-۱) مسٹ (۱) کچی تینالی۔ کھل۔
 چاپ۔ (دہ-۱-۱) مسٹ (۱) پاؤں کی آہٹ یا آواز۔ کمان۔
 چاپ۔ (ف) (دہ-۱-۱) مذ (۱) پھاپا۔ چھپنا۔ چھاپ۔
 چاپاٹی۔ (چا۔ پاتی) (دہ-۱-۱) ف۔ (۱) مسٹ (۱) چپاتی۔ روٹی۔
 چاپار۔ (چا۔ پار) (ف) (دہ-۱-۱) مذ (۱) ڈاک۔
 چاپرٹ۔ (چا۔ پٹ) (دہ-۱-۱) مسٹ (۱) خٹکے کے وہ ٹکڑے جو پسنے سے وہ مائیں۔ بھوسی۔ چوکر۔ چیری۔
 چاپکی۔ (چاپ۔ چی) (ف) (صفت) (۱) چھپانے والا۔ طابع۔ پرنٹر۔
 چاپلوس۔ (چاپ۔ لوس) (ف) (صفت) (۱) خوشامدی۔
 چاپلوسی۔ (چاپ۔ لوسی) (ف) (۱) مسٹ (۱) خوشامدی۔ بے جا تعریف کرنا۔
 چاپتر۔ (چا۔ تر) (دہ-۱-۱) مسٹ (۱) چالاک۔ قابل۔ کاریگر۔ ہنرمند (۲) چار۔ چار کے متعلق (۳) دانہ۔ عقل مند (۴) بہادر۔ دلیر۔
 چاپتر تو بیری بھلا، مور کھ بھلا نہ میست۔ (۱) مقولہ (۲) دانہ دشمن نادان دوست سے بہتر ہوتا ہے۔

اس کے پانچاں پھرنے کے لیے چارپائی کا بان کاٹ دینا۔
 چارپائی کے بان توڑنا۔ (۱- محاورہ) ہر وقت پنگ پر بیٹے رہنا۔ کابل
 اور سُست ہونا۔

چارپائی میں کان نکلنا۔ چارپائی میں سیل یا نمی کے باعث خم آجانا۔
 چارپائی والا۔ رکتا یا کھنکھل۔

چارپایہ۔ چوپایہ۔ چارپاؤں کا جانور۔ ڈھور ڈنگر وغیرہ۔
 چارپایہ ہونا۔ (۱- محاورہ) مزارع کے طور پر شادی ہونے پر دلھاسے کہتے
 ہیں۔ جورد والا۔ خیال دار ہونا۔

چارپہر دن۔ (۱- مذ) یورادن۔
 چارپہر رات۔ (۱- صفت) ہلاری رات۔

چارپہر۔ (۱) امام حسن (۲) امام حسین (۳) خواجہ حسن بصریؒ (۴)
 کیل ابن زیاد۔

چارپیے۔ (۱- مذ) مال۔ دولت۔

چارپیے پاس ہونا۔ (۱- محاورہ) امیر ہونا۔ آسودہ حال ہونا۔

چارپیے سے خوش۔ (۱- صفت) کھاتا پیتا۔ آرام سے زندگی گزارنے والا۔
 چارپیے کے لیے۔ تھوڑے مال کے لیے۔

چارتار۔ (۱- مذ) چار بوڑھے۔ چار کپڑے (۲) چار گنے۔ چار زیور۔

چارتال۔ (۱- مذ) چوتالا۔ طبلہ بجانے میں ایک تال۔

چار تخم۔ (۱- مذ) ریحان۔ اسفونل۔ بانگ اور خرنج کے بیج جو چشم
 میں استعمال کیے جاتے ہیں۔

چار تکبیر۔ (۱- صفت) نماز جنازہ۔

چار تک۔ (۱- مذ) چار قدم (۲) سرپٹ۔

چار ٹوک۔ (۱- مذ) چار ٹکڑے والا۔ چوکھنڈا۔ چار پھانگ۔

چار جامہ۔ (۱- مذ) کپڑے کا زین جس میں کڑی نہیں ہوتی (۲) تہ بند
 ہانڈے ہوئے اور باقی بدن تنگا۔

چار جاتی۔ ناشہ۔ بدکار۔

چار چالے۔ (۱- مذ) نئی کھن شادی کے بعد چار مرتبہ پہلے بیٹنے کیے میں
 مختلف رشتے داروں کے یہاں جہان ہوتی ہے۔ ہر ایک پھرے میں کپڑوں
 کا جوڑا اور کچھ نقدی دیتے ہیں۔

چار چاند لگانا۔ (۱- محاورہ) عزت بڑھانا۔ شان و شوکت بڑھانا۔ خوبصورتی
 بڑھانا۔ آنکھوں پر بٹھانا۔

چار چاند لگانا۔ (۱- محاورہ) عزت بڑھانا۔ شان و شوکت بڑھانا۔ خوبصورتی بڑھانا۔
 چار چشم۔ (۱- صفت) (۱) جے جے۔ بے عروت۔ بے وفا۔ بے دید۔ تو تاپتیم
 دہ جا لو زین کی آنکھوں کے اُپر کی طرف سیاہ رنگ کے نشان ہوں خصوصاً
 گنا (۲) قنظر۔ نہایت آرزو مند۔

چار چلو خون (لہو) بڑھانا۔ (۱- محاورہ) نہایت خوش ہونا۔

چار چوٹی کی مار۔ (۱- صفت) (۱) سخت مار دینا۔ شدید ضرب پہنچانا۔
 لات لٹکتے کڑی اور کڑے سے مارنا۔

چار چول (چول) چولی برابر ہونا۔ (۱- محاورہ) چوکور۔

چار چھینٹوں میں دھو دینا۔ (۱- محاورہ) ذرا سی دیر میں کام کر دینا۔ تھوڑی

دلا پیٹے ہوئے لٹکے کو بورو بنا کر لے جاتا ہے اور اس کے ساتھی دوسرے
 لڑکوں کی پڑھی بیٹے ہیں۔

چادر چھت۔ (۱- صفت) (۱) چھت کا کپڑا (۲) جتنی چادر کی چھت۔

چادر دیکھ کر پاؤں پھیلانا۔ (۱- محاورہ) اپنی حیثیت کے مطابق وقت گزارنا۔
 چادر ڈالنا۔ (۱- محاورہ) دیکھتے چار ڈھانا۔

چادر سے باہر پاؤں پھیلانا۔ (۱- محاورہ) بساط سے بڑھ کر کام کرنا۔
 چادر ہلانا۔ (۱- محاورہ) لڑائی کی حالت میں مغلوب فرج کا چادر ہلا کر شرتا، شرتا
 شکست کرنا اور پناہ چاہنا (۲) فریاد کرنا (۳) لوگوں کو جمع کرنے کی نشانی۔

چادر۔ (۱- صفت) (۱) بڑا اور چوڑا دوپٹا کا دوپٹہ۔ بڑی چادر۔

چار۔ (۱- صفت) (۱) تین اور ایک یا دو اور دو (۲) چند۔

چار آدمی۔ چند آدمی۔ دو چار بیٹے نالن۔ بیچ۔

چار آنکھیں کرنا۔ (۱- محاورہ) آنکھیں ملانا۔ سامنے آنا۔ مقابل ہونا۔

چار آنکھیں ہونا۔ (۱- محاورہ) (۱) زیادہ واقفیت ہونا۔ محبت ہونا (۲) سامنا ہونا۔

چار آئینہ۔ (۱- صفت) (۱) ایک قسم کی زہرہ بہتر۔

چار ابرو کا صفایا۔ (۱- محاورہ) سر، بھوڑوں، مونچھوں اور داڑھی کا منڈا دینا۔

چار (اجساد) ارکان۔ (۱- مذ) (۱) چار عنصر۔ مٹی۔ ہوا۔ پانی اور آگ (۲) اربعہ عناصر

چار اسباب۔ (۱- مذ) چار ملتیں۔ مادی۔ فانی۔ صوری۔ خالی۔

چار انگلی کا (پرچہ) پُرزہ۔ (۱- مذ) چھوٹا سا پرچہ۔ رقتہ۔ قسط۔

چار انگلیاں آٹھنا۔ (۱- محاورہ) اٹھارے سے سلام کرنا۔ سلام کا جواب دینا۔

چار انگلیاں سر پر نہ رکھنا۔ (۱- محاورہ) سلام تک نہ کرنا۔ سلام کے لیے
 ماتھ تک نہ اٹھانا۔

چار باغ۔ (۱- صفت) وہ شالی رومال جس کے چاروں گوشوں پر چار
 رنگ کے گل بُوئے ہوئے یا کپڑے ہوتے ہیں۔ چوکھنڈا باغ۔

چار بالاش، بالشت۔ (۱- مذ) (۱) گڈو لگیہ (۲) تخت۔ گدی۔ مسند (۳)
 کونج (۴) کرسی (۵) عناصر اربعہ۔

چار بانگ۔ (۱) ہوشیار۔ حقل مند (۲) چٹت۔ حالاک۔

چار بند۔ (۱) پشت کے چاروں بوز (۲) پشت کا دائیں بائیں۔ نیچے اور
 اوپر کا حصہ۔

چار بیٹی۔ رباعی۔ شاعری کی ایک صنف جو چار مصرعوں پر مشتمل ہوتی ہے۔
 چار بیسی۔ آستی۔ ۸۰۔ بیسٹ کم ستو۔

چار پانچ۔ (۱) چند (۲) جھگڑا۔ جیل و محنت۔ حذر۔

چار پانچ (کرنا) لانا۔ (۱- محاورہ) جملہ محنت کرنا۔ بد ذاتی کرنا۔ شرارت کرنا۔

چار پار سے کا خلعت۔ (۱- مذ) وہ خلعت جس میں چار تہمتی کپڑے ہوتے ہیں۔

چارپائی۔ (۱) کاٹ۔ مہنی۔ چھوٹا پنگ۔ پٹنگری (۲) مجازاً لاش جنازہ
 زخمی۔ مجروح۔ گھائل۔

چارپائی پر پڑنا۔ (۱- محاورہ) (۱) چارپائی پر لیٹنا (۲) بیمار ہونا صاحب فراس ہونا

چارپائی سے پیٹھ لگ جانا۔ (۱) کاٹ پھر پڑے پڑے پیٹھ میں زخم ہو جانا۔
 (۲) بیمار کا بہت کر دہ ہو جانا۔

چارپائی کا لوٹنا۔ بیٹھے یا کھٹے سے چارپائی سے آواز نکلنا۔

چارپائی کاٹ دینا۔ (۱- محاورہ) بیمار اٹھنے بیٹھے سے مسخورد ہو جائے تو

سی تو قبر میں کام بنا دینا۔

چار حرف بیچنا۔ (۱- محاورہ) لعنت کرنا (لعنت میں چار حرف ہیں)۔
چار خانہ۔ (ف- ۱- مذ) (۱) خانہ دار پڑھا (۲) شطرنج کی بساط میں درمیان کے چار خانے (۳) مولیٰ کا معادہ۔

چار دانٹ۔ (۱- مذ) چار سال کا جوان مولیٰ یا گھوڑا کیوں کہ اس عمر میں سانس کے چار دانٹ نکل آتے ہیں۔

چار دانگ۔ (۱- مذ) (۱) چاروں طرف۔ کل۔ تمام (۲) دنیا کی چار طرفیں (۳) دنیا کا بچھا حصہ۔

چار دانے۔ (۱- مذ) تھوڑا سا نڈ۔

چار دن۔ (۱- مذ) تھوڑے دن۔ چند روز۔ ذرا سی مدت۔

چار دن اور جو اگھالو۔ تھوڑی مدت اور جی لو۔

چار دن چلنا۔ (۱- محاورہ) تھوڑے دن باقی رہنا۔ کمزور۔

چار دن کی بادشاہی۔ (۱- معنی) چند روزہ۔ حکومت چند روزہ۔ چار دن کی بہار۔ چند روزہ رونق۔

چار دن کی بہار۔ (۱- معنی) چند روزہ رونق۔

چار دن کی چاندنی۔ (۱- معنی) چند روزہ بہار۔ عارضی رونق۔

چار دن کی چاندنی پھر اندھیرا پاکھ (رات)۔ چند روزہ عیش ہے اور پھر وہی تخلیق۔ چند روز کی رونق پھر وہی بے رونقی۔

چار دن کی کوٹوالی پھر وہی کھر باوہی جالی۔ (۱- معنی) اس موقع پر بہتے ہیں جب کسی نالائق شخص کو عارضی رتبہ مل جائے۔

چار دیوار۔ (ف- ۱- مذ) کسی رقبے یا معاملے کے چاروں طرف کی دیواریں۔

چار دیواری۔ (ف- ۱- معنی) شہر پناہ ضعیف۔ گھیرا۔ احاطہ۔

چار روزہ چند روز۔

چار روزہ۔ (۱- معنی) چند دن کی۔

چار زانو بیٹھنا۔ (۱- محاورہ) آلتی پالتی مار کر بیٹھنا۔

چار سو۔ (ف- تابع فعل) چاروں طرف۔ شمال جنوب۔ مشرق۔ مغرب۔

چار (چہار) شنبہ۔ (ف- ۱- مذ) بڈھ۔

چار ضرب۔ (ف- ۱- مذ) (۱) سونڈ کے ایک شکل کا نام جس میں ذکر نئی اشبات کے وقت۔ دل۔ جگر۔ دماغ اور بیض پر اندھا اللہ کے لفظ کی ضرب۔ فزیت یہ فزیت زور سے لگاتے ہیں (۲) چوتالی رقص (۳) بیعت کے وقت جو تلمذ لوگ چار بار دکانا یا کرتے ہیں۔

چار شخص۔ (ف- ۱- مذ) چاروں اصل بڑجی سے موجودات کی ظاہری صورت نمودار ہوئی۔ آگ۔ پانی۔ ہوا۔ مٹی زمانہ قدیم میں انہیں کو اصل اور بنیادی بڑد مانا جاتا تھا۔

چار قدم۔ (ف- ۱- مذ) (۱) تھوڑا فاصلہ (۲) بہت نزدیک۔ تھوڑے فاصلے پر۔

چار قدم آگے چلنا۔ (۱- محاورہ) غالب رہنا۔ بڑھا رہنا۔

چار قل۔ قرآن مجید کے تیسویں پارے کی چار سو دہائیوں جو لفظ قل سے شروع ہوئی ہیں (۱) سورتہ البقرہ (۲) سورتہ الانعام (۳) سورتہ الفلق (۴) سورتہ الناس۔

چار کانے۔ (۱- مذ) (۱) چاروں بازوؤں کی اصطلاح میں ایک داؤ کا نام۔

یعنی جب تینوں پاسوں میں چار نقطے اس طرح برآتے ہیں کہ ایک پاسے میں دو صف اور دو پاسوں میں ایک ایک آئے تو اس کو چار کانے کہتے ہیں۔

چار کانے (آنا) پڑنا۔ (۱- محاورہ) داؤں کا سبب ملا نہ پڑنا۔

چار کپڑے زیادہ پھاڑے ہیں۔ (۱- معنی) زیادہ تجربہ حاصل کیا ہے (۲) زیادہ جینا۔

چار کھونٹ۔ (۱- معنی) (۱) چار طرف (۲) دنیا کے چاروں طرف (۳) چاروں چار کی مرضی۔ (۱- معنی) چند آدمیوں کی خوشی۔

چار کے کان آواز پڑنا۔ (۱- محاورہ) ہنرہ ہونا۔ پرچا ہونا۔

چار کے کاڈھے پر (جھانا) پڑھنا۔ (۱- محاورہ) سرنے کے بعد جنازہ چار آدمیوں کے کاڈھوں پر جھانا۔

چار (گام) گامہ۔ (ف- ۱- مذ) تیز رفتار گھوڑا۔

چار گنا۔ (۱- عدد) چوگنا۔

چار گوشہ۔ چوکونی چیز (۲) تابوت (۳) تخت شاہی۔

چار مذہب۔ (ف- ۱- مذ) اہل سنت کے چار مذہب (۱) حنفی (۲) فقہ امام

دو عینہ کے پیروکار (۲) حنفی (۳) فقہ امام احمد بن حنبلہ کے پیروکار (۴) شافعی (۵) فقہ امام شافعی کے پیروکار (۶) مالکی (۷) فقہ امام مالک کے پیروکار)۔

چار مخز۔ (ف- ۱- مذ) خربوہ۔ کڈو۔ کھیر اور تربوز کے بیجوں کا مغز۔

چار منزل۔ (ف- ۱- معنی) شریعت۔ طریقت۔ حقیقت۔ معرفت۔

چار (موج) موجہ۔ (ف- ۱- مذ) بھنور۔ گرداب۔

چار میخ۔ (ف- ۱- معنی) زمانہ قدیم کی ایک عبرت ناک سزا جس میں ہاتھوں پیرں میں چار میخیں ٹھونک دی جاتی تھیں۔

چار میخا کرنا۔ (۱- محاورہ) اونڈھا یا چت لٹا کر چاروں ہاتھ پاؤں میخوں سے ہانڈھ کر سزا دینا۔

چار میں۔ (۱- معنی) فعل) خیزوں میں۔ لوگوں میں۔

چار میں لانڈی کھینا۔ (۱- محاورہ) رازناش ہونا۔

چار ہاتھ۔ (۱- مذ) (۱) دو اور دو ہاتھ لہائی میں چار ہاتھ (۲) قیاسی پیمائش۔

چار ہاتھ اچھلنا۔ (۱- محاورہ) بہت بے چین ہونا۔

چار ہاتھ کی زبان ہونا۔ (۱- محاورہ) بہت زبان دراز ہونا۔ گستاخ ہونا۔

چار یار۔ (ف- ۱- مذ) رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چار بڑے صحابی حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی مرتضیٰ ہیں۔

چار یاری۔ (ف- ۱- معنی) (۱) چار یا سارے منسوب (۲) خاص دوستوں کا مجمع۔

(۳) گھر کا روپیہ جو چوکور ہوتا ہے اور برکت کے لیے لوہوں کی تعبیل میں رکھتے ہیں۔

چارا۔ (۱- معنی) (۱) چاروں کی سبز خوراک۔ گھاس وغیرہ (۲) وہ چیز جو پھلی شکار کرنے کی غرض سے کانٹے میں لٹائی جاتی ہے (۳) چھوٹا پردا۔

چار ڈالنا۔ مولیٰ کے آگے گھاس وغیرہ ڈالنا۔

چار لگانا۔ (معنی) مرکب) پھلی شکار کرنے کو کانٹے میں کوئی چیز لگانا۔

چارا چھوڑا۔ (۱- معنی) (۱) چھوڑا۔ (۲) (۱) زور (۲) اسباب۔

چارٹ - (Chart) (رنگ -۱۔ مذ) نقشہ۔ خاکہ۔ جدول۔
 چارٹر - (Charter) (چار۔ ٹ) (رنگ -۱۔ مذ) سند۔ پرواز۔ نشور۔ زبان۔
 چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ - سند یافتہ محاسب۔
 چارج - (Charge) (رنگ -۱۔ مذ) خدمت۔ کار متعلقہ۔ فرض۔
 سپردگی - (۲) الزام۔ جہمت۔ جرم (۳) حملہ۔ دھاوا۔
 چارج سٹیٹ - فرد جرم۔
 چارکول - (Charcoal) (چار۔ کول) (رنگ -۱۔ مذ) کڑھی کا کوئلہ۔
 چارولی - (چار۔ ولی) (رق -۱۔ ص) سمنز بگری (افروٹ) وغیرہ کی۔
 چار و تاجار - (تاج۔ نعل) بھورا۔ تھرا۔ زبردستی۔
 چاروں - (چار۔ روں) (۵۔ ص) چار کے چار۔
 چاروں انشرم - ہندوؤں کے چار بڑے فرستے۔
 چاروں پیر - (۱۱۔ مذ) ہر وقت۔ اکثر اوقات۔
 چاروں جگ - (۱۱۔ مذ) چاروں زمانے (۱) ست جگ (۲) تریتا جگ (۳) دو اپر جگ (۴) کل جگ۔
 چاروں چول برابر ہے - (۱۱۔ م) چاروں طرف سے ایک جیسا ہے۔
 مزین ٹکڑے۔ موٹا تازہ۔
 چاروں چولوں سے ٹھیک کر لینا - (۱۱۔ محاورہ) معاملے کو پورے طور سے درست کر لینا۔
 چاروں (خانے) شانے چمت - (۱۱۔ متول) (۱) پوری طرح بچھر جانا۔ کشتی
 میں عربین کا پیٹھ کے بل گر جانا (۲) شکست کھانا۔
 چاروں شانے چمت ہو گیا - (۱۱۔ م) بدعاس ہو کر رہ گیا۔ لاری گیا۔
 چاروں طرف - ہر طرف۔
 چاروں سمت - (۱۱۔ ص) علم موسیقی کے چار رنگ۔
 چاروں دامن - (۱۱۔ مذ) ہندوؤں کی چار ذاتیں۔ برہمن۔ چھتری۔ ویش۔ شوڈر۔
 چاروں وید - (۱۱۔ مذ) ہندوؤں کی چار مذہبی کتابیں۔ رگ۔ یجر۔
 سام۔ ایتھوید۔
 چارہ - (چار۔ ۲) (ذ) علاج۔ تدبیر۔ درد۔ دوستی۔ سراپجام۔
 چارہ پرواز - (ذ) صفت چارہ کرنے والا۔
 چارہ پزیر - (ذ) صفت جس کا چارہ ہو سکے۔ قابل علاج۔
 چارہ جوتی - (ذ) (۱۔ ص) استغناقر یا دعوئے کرنا۔ نالاش و فریاد کرنا۔
 چارہ (ساز) گر - (ذ) صفت مشکل آسان کرنے والا۔ کام بنانے یا
 کرنے والا۔ سماج۔
 چارہ (ساز)ی آگری - (ذ) صفت (۱) امداد۔ یاری (۲) علاج۔ سماج۔
 چار۔ (ذ) (۱۔ مذ) (۱) شکوہ (۲) صدر (۳) بڑھ (۴) زخم (۵) خواہش (۶)
 داغ (۷) سہارا (۸) پروا۔ پاس۔
 چارٹی - (چار۔ ٹی) (ذ) (۱۔ ص) چٹلی۔ الزام۔ چاشنی۔
 چارٹی خود۔ چٹل خود (ق)۔
 چاش - (۱۱۔ ص) (۱) شرا۔ قوام۔ چاشنی۔
 چاش نکالنا۔ قوام بنانا۔
 چاشت - (ذ) (۱۔ مذ) (۱) پھردن بڑھے کا وقت (۲) صبح کا کھانا۔ حاضری

(۳) ایک ناز جو پھردن بڑھے بڑھے ہیں۔
 چاشت خور - (ذ) صفت (مفت خور) جسے کھانے کی چیزیں بیز کوشش
 کے حاصل ہو جائیں۔
 چاشنی - (چاش۔ نی) (ذ) (۱۔ ص) (۱) مزہ۔ ذائقہ (۲) پخت۔ شربت کا
 تار۔ شربت کے پکنے کا اندازہ (۳) تھوڑی سی ملاوٹ (۴) تھوڑا سا
 بگھلا کر سونے یا چاندی کی اصلیت معلوم کرنا (۵) ثبوت (۶) محاس
 اور کھٹاس ملی ہوئی (۷) ذرا سی شیرینی (۸) آم کے پودے میں جو پہلا پھل نکلتا ہے۔
 چاشنی دار۔ کھٹ مٹا۔ ترش د شیریں۔
 چاشنی گیر - (ذ) صفت (۱) بادبجی۔ بکادل۔ بادشاہوں یا امیروں کے وہ ملازم
 جن کا کام یہ ہوتا ہے کہ ہر کھانے کو پیش کرنے سے پہلے چکھیں۔ تاکہ
 زہر کا اندیشہ نہ رہے۔
 چاق - (ذ) صفت (۱) صیح۔ تن درست (۲) چالاک۔ چست۔ پڑتلا۔ ہوشیار
 (۳) تروتازہ۔
 چاق چوبند - (ذ) صفت تیز تر آہ۔ ہوشیار۔ تن درست۔
 چاقو - (چار۔ ق) (ذ) (۱۔ ص) قلم تراش۔ کاٹنے والا ایک آکر۔
 چاک - (ذ) صفت (۱) کٹا ہوا۔ پھٹا ہوا۔ دریدہ (۲) دامن یا آستین کا
 کھلا ہوا حصہ۔
 چاک چاک - ٹکڑے ٹکڑے۔ اسلحہ کا آپس میں ٹکرا کر آواز پیدا کرنا۔
 چاک ڈامان (دامن) - دامن وغیرہ کا کھلا ہوا حصہ۔ پھٹا ہوا پٹو۔
 چاک دینا - (ذ) پھاڑنا۔ چیرنا۔ ٹکڑے کرنا۔
 چاک کا ہنستا - (۱۱۔ محاورہ) شگاف کھٹنا۔
 چاک کرنا - (۱۱۔ محاورہ) پھاڑنا۔ چیرنا۔ پرنسے کرنا۔ پیتھڑے اڑانا۔
 چاک ہونا - (۱۱۔ محاورہ) پھٹنا۔ چرنا۔
 چاک - (۱۱۔ ص) (۱) کھار کا پیتھڑے سے پکڑ دے کر برتن بناتے ہیں (۲)
 پرستے دار کویش کی چرپی (۳) لکڑی کا چیر جو کویش کی تہیں رکھتے ہیں (۴)
 گول کٹھا جس میں مصری یا قند جھاتے ہیں (۵) وہ چیزیں جس سے کھلیاں
 پر چھاپ لگاتے ہیں (۶) چکی۔ چکی کا پتھر۔
 چاک اترتا ہوا پھر نہیں چڑھتا - (۱۱۔ م) بگڑا ہوا کام پھر نہیں بنتا۔
 چاک کی طرح پھرنا - (۱۱۔ محاورہ) پرغ کی طرح گھومنا۔ چکر کھانا۔
 چاک - (Chalk) (رنگ -۱۔ مذ) کھر یا مٹی۔ کھر یا۔
 چاکر - (چار۔ کر) (ذ) (۱۔ ص) نوکر۔ خادم۔ ملازم۔ خدمت گزار نوکر کا نوکر۔
 اہل کار۔ جمع چاکراں۔
 چاکری - (چاک۔ ری) (ذ) (۱۔ ص) ملازمت۔ نوکری۔ خدمت گاری۔ ٹیل۔
 سیوا۔ ملازمت کرنا۔ نوکری کرنا۔
 چاکری میں آگری کیا - (۱۱۔ متول) نوکری میں آگری نہیں چاہئے۔
 چاکسو - (چاک۔ سو) (ذ) (۱۔ ص) ایک قسم کے سیاہ۔ بیج جنہیں اُبال کر سونف جاتے
 ہیں اور آشوب چشم کے لیے آنکھوں میں ڈالتے ہیں۔
 چاکلیٹ - (Chocolate) (چاک۔ لیٹ) (رنگ -۱۔ مذ) ایک
 قسم کی مغزی مٹائی۔
 چاکنا - (چاک۔ نا) (ذ) صحت۔ چکنا۔

چالاکي - (چا۔ لاکي) (ف۔ ا۔ مٹ) (۱) پھرتی - پھرتی - تیزی (۲) ہوشیاری۔
دانائی (۳) عیاری - مکاری۔
چالاکي کرنا - (۱) محاورہ) دھوکا دینا - دھوکا کرنا - کھسک جانا - دھوکا دینے کا عمل جانا۔

چالان - (چا۔ لان) (۱) مٹ (۲) پچک - پچی ہوئی اشیاء کی فہرست (۲)
مسرلہ اشیاء کی رسید (۳) رسیدرز (۴) پروانہ راہ داری - پاس۔ پاسپورٹ
(۵) روانگی - انتقال (۶) روداد تفتیش یا ملازم کو نصف کے ڈوبرو پیش کرنا۔ قانون کی خلاف ورزی پر باز پرس (۷) ایک نکلے سے دوسرے نکلے کو منتقلی۔
چالان ہونا - (۱) محاورہ) قانون کی خلاف ورزی پر عدالت میں حاضر ہونے کا حکم ملنا۔

چالو - (چا۔ لو) (صفت) چلنے والا - رواں - روانج۔
چالو - (چا۔ لو) (۱) مٹ (۲) گھوڑے کی زین (۲) بانس کی تیلیوں کا ڈھانچا بوکستی کی تہ میں لگاتے ہیں (۳) گارو جو کسی نوکری کے لیے لگایا جائے (۴) شریہ۔

چالیسا - (چا۔ ل۔ یا) (۱) مٹ (۲) صفت) چال باز - فریبی۔ شرارت کرنے والا بچہ۔
چالیس - (چا۔ لیس) (۱) مٹ (۲) صفت) بیس اور بیسٹل - ۴۰۔
چالیس سیرا - (۱) مٹ (۲) چالیس سیرا - کس بھرکا (۲) چاری - وزنی (۳) من کی پوری تول کا (۴) ٹھیک - درست۔ خالص۔ بے میل۔

چالیس سیراؤت - (۱) مٹ (۲) پورا احمق - نہایت بے وقوف۔
چالیس سیری بات - (۱) مٹ (۲) چھی تلی بات۔
چالیس سیری تول - (۱) مٹ (۲) پورا تول۔ من کی پوری تول۔
چالیس قدم ساتھ آنا - (۱) محاورہ) کچھ دور ساتھ جانا۔ محو ماں جازے کے ساتھ کم از کم چالیس قدم جاتے ہیں۔

چالیسا - (چا۔ لیس) (۱) مٹ (۲) چالی - (۳) صفت) چالیس برس کی عمر کا آدمی (۲) پہلوان جس نے چالیس پہلوانوں کو کچھاڑا جو (۳) چالیس آدمیوں سے مقابلہ کرنے یا چالیس آدمیوں کو مار ڈالنے والا بہادر (۴) ۱۸۷۱ء کا قحط جو ابھی تک فراموش نہیں ہو سکا جبرت کے طور پر بیان کرتے ہیں (۵) ایک پورن جمی میں چالیس دوا میں استعمال کرتے ہیں (۶) چہلم کا فاتحہ۔
چالیسواں - (چا۔ لیس) (۱) مٹ (۲) صفت) (۱) وہ چیز جس پر چالیس کی گنتی پڑی ہو (۲) چالیس سے نسبت رکھنے والا (۳) چہلم - فاتحہ چہلم مڑنے کے سوا چیسے کا فاتحہ۔

چام - (۱) مٹ (۲) چڑا - کھال۔
چام پیارا نہیں کام پیارا ہے - (۱) مٹ (۲) کسی کو صورت عزیز نہیں ہوتی کام اور خدمت سے وقعت اور عزت ہوتی ہے۔

چام کے دایم - (۱) تبلیغ (۲) چڑے کا رویہ (۲) وہ چڑے کا دوپہر جو نظام سنے نے اپنے نہایت مختصر عہد حکومت میں شہنشاہ ہمایوں کو جان بچانے کے صلے میں شہنشاہ کی اجازت سے سونے کی کیل بڑھ چلا یا تھا (۳) کوئی چیز جو سستی خریدی جائے۔

چانپ - (۱) مٹ (۲) بند دوں کا وہ پڑوہ جو کندھے اور نال کو باہم جوڑتا ہے۔ (۳) مصنوعی دانٹوں کی گاتی (۴) گمان (۴) کھنڈ۔

چاکی - (چا۔ کی) (۱) مٹ (۲) پٹے بازوں کی ایک اصطلاح (۲) چکی۔
چاکی پھیری ہوئی چون کی ڈھیری - (۱) مٹ (۲) محنت کرنے کا جملہ مل کر بتا ہے۔ چکان پھلنے سے آنا نکل آتا ہے۔

چاکی کا لائقہ مارتا - (۱) محاورہ) بدن پر خالی گلا دیکھ کر داکرنا۔
چال - (۱) مٹ (۲) رفتار۔ حرکت۔ چلنے کا انداز (۲) گھوڑے کی رفتار۔ گھوڑے کا قدم (۳) روشن - رویت (۴) طرز - طور و طریق (۵) عادت۔ سبھاؤ (۶) شطرنج کے بھرے یا چوڑی کی زد کو ایک گھر سے دوسرے گھر میں لے جانا (۷) مکر۔ فریب۔ دھوکا۔ گھات۔ تجویز (۸) عادت۔
رداج - رسم (۹) ایک بھر یا وزن۔ ایک مسر (۱۰) ایک قسم کی پھلی۔

چال اڑانا - (۱) محاورہ) پیروی کرنا۔ نقل کرنا۔ رنگ اڑانا۔
چال باز - (۱) مٹ (۲) صفت) چالاک۔ ہوشیار۔ عیاری۔ فریبی۔
چال بازی - (۱) مٹ (۲) چالاک۔ عیاری۔ فریبی۔ شرارت۔ چیل۔

چال بتلانا - (۱) محاورہ) شطرنج میں بھرے کو خاص انداز سے چلنے کا مشورہ دینا۔
چال بٹرنا - (۱) محاورہ) داؤں چل جانا۔ فریب یا دھوکا کامیاب ہونا۔ تدبیر میں ٹپنا۔
چال چلن - (۱) مٹ (۲) طور۔ طریقہ۔ رنگ ڈھنگ۔ روش۔ رویت۔ عادت۔ نصیحت۔
چال چلنا - (۱) محاورہ) (۱) برتاؤ کرنا۔ پیش آنا (۲) فریب دینا۔ چیل دینا (۳) فطرت یا وضع اختیار کرنا (۴) شطرنج یا چوسر وغیرہ میں بھرہ چلنا (۵) تدبیر کارگر ہونا۔ چال کا کامیاب ہونا۔

چال چوگنا - (۱) محاورہ) تدبیر غلط ہو جانا۔ سہو ہو جانا۔
چال دکھانا - (۱) محاورہ) (۱) چلا جانا۔ سدھارنا (۲) گھوڑے کا رفتار یا قدم دکھانا۔
چال ڈھال - (۱) مٹ (۲) رفتار۔ گنا۔ طرز و روش۔ طور طریقہ۔ انداز۔

چال ڈھال میں بیس ہونا - (۱) محاورہ) طرز و روش میں بہتر ہونا۔
چال سوجھنا - (۱) محاورہ) تدبیر یا منصوبہ ذہن میں آنا۔
چال سوچنا - (۱) محاورہ) شطرنج کا کچھ چلنے کے لیے دیر تک غور کرنا۔

چال سیکھنا - (۱) محاورہ) کسی کو وضع اختیار کرنا۔ کسی کے چلنے کا طریقہ اختیار کرنا۔
چال سے نہ چوگنا - (۱) محاورہ) دھوکا دینے سے باز نہ آنا۔ شرارت کرنا۔
چال کرنا - (۱) محاورہ) دھوکا دینا۔ فریب کرنا۔ چالاک کرنا۔ داؤں کرنا۔

چال میں آنا - (۱) محاورہ) دھوکے میں آنا۔
چال ہونا - (۱) محاورہ) دیکھنے چال کرنا۔ شطرنج یا چوڑے میں اپنی چال پڑنا۔
چالیس (چھوٹا جانا) چھوٹنا - (۱) محاورہ) گھبرا جانا۔ مٹ پٹا جانا۔ کچھ نہ سوجھنا۔
چالیس چلنا - (۱) محاورہ) دھوکا دینا۔ فریب دینا۔

چالا - (چا۔ لا) (۱) مٹ (۲) روانگی۔ رخصت۔ کوچ (۲) اپنی دھن کا سرسراں سے شادی کے بعد اول چار پارہیکے جانا (۳) روانگی۔
چالا دیکھنا - (۱) محاورہ) صورت دیکھنا۔ نجوم کے قاعدے کے مطابق سفر کا وقت مقرر کرنا۔

چالاک - (چا۔ لاک) (۱) مٹ (۲) صفت) (۱) محنتی۔ جفاکش - کام کرنے میں چست پھر تیلنا۔ تیز رفتار۔ (۲) زیرک۔ ہوشیار۔ ذہین (۳) مکار۔ فریبی (۴) کاری گر۔ بھڑمند۔

چالاک دست - (۱) مٹ (۲) صفت) ہوشیار۔ لائقہ کی صفائی دکھانے والا۔
چالاک دستی - (۱) مٹ (۲) چالاک۔ ہوشیاری۔ لائقہ کی صفائی۔

چاندنی رات۔ (امث) وہ رات جب تقریباً ساری رات چاندنی رہے۔
 قری بیٹے کی پوچھوں۔ پندرہویں اور سولہویں رات۔ شب ماہ۔ شب ہفتاب۔
 چاندنی صاف ہوتا۔ (۱- محاورہ) چاندنی کا کھڑنا۔
 چاندنی کا اثر ہونا۔ (۱- محاورہ) چاندنی پر چھانے سے زخم کا اچھا نہ ہونا۔
 زخم کا ہزار ہنا۔
 چاندنی کا پھول۔ (۱- مذ) ایک قسم کا سفید پھول۔
 چاندنی کا کھیت۔ (۱- مذ) ہٹکی ہوئی چاندنی۔
 چاندنی (کا) مارا جانا۔ (۱- محاورہ) (۱) چاندنی کا اثر کرنا (۲) ناک جو جاتا (۳)۔
 چاندنی کا زخم کو بگاڑ دینا۔
 چاندنی کرن۔ برہمنوں یا فقیروں کا مانگنے یا قرضہ معاف کرانے کی عرض سے
 اپنے آپ کو زخمی کرنا۔
 چاندنی کو سونپنا۔ (۱- محاورہ) چاندنی مرطوب مزاج ہوتی ہے اور زخم کے
 حق میں ضرر ہوتی ہے اور زخم دیر میں مندل ہوتا ہے۔ اگر کوئی زخمی یا زخم کسی
 ایسی جگہ ہو جہاں چاندنی پہنچتی ہو اور مریض کو دال سے منتقل نہ کیا جا سکتا ہو تو
 بولے جلا کر ایک آدمی کو گواہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں "ہم نے اس زخمی کو تیرے
 سپرد کیا" دوسرا آدمی کہتا ہے "میں اس بات کا گواہ ہوں" یہ ایک ڈھنگ تھا
 جو کسی زمانے میں مروج تھا۔
 چاندنی کھلنا۔ (۱- محاورہ) چاندنی پھیلنا۔ چاندنی چنگنا۔
 چاندنی میں جوت پڑنا۔ (۱- محاورہ) ایسا چکدار ہونا کہ چاندنی پر بھی اپنی
 چمک بنا یاں کرے۔
 چاندنی نکلتنا۔ (۱- محاورہ) چاندنی کا ظاہر ہونا۔
 چاندنی بکھرنا۔ (۱- محاورہ) بارش کے بعد چاندنی کا صاف ہونا۔
 چاندنوا (چندوا)۔ (چاند۔ وا) (۱- مذ) (۱) ایک قسم کا شیمانہ یا ساجان۔
 (۲) کپڑے کی چھت (۳) شیشے کی بندی یا ستارہ جو عورتیں ماتھے پر لگاتی
 ہیں (۴) ٹوپی کا بالائی گول حصہ۔
 چاندنی۔ (چاں۔ دی) (۱- مذ) (۱) نقرہ۔ (۲) ایک سفید دھات جس
 سے روپیہ اور زورات وغیرہ بنائے جاتے ہیں (۳) کامیابی۔ ناندہ۔
 فتح (۴) مال۔ دمن۔ دولت۔
 چاندنی بنانا۔ (۱- محاورہ) (۱) ہوس کا مانگنے یا کسی ہلکی دھات کو چاندنی کر لینا
 (۲) کام درست کرنا (۳) ناندہ کرنا۔
 چاندنی خانہ۔ وہ مکان جہاں چاندنی کے رتن بنتے ہیں۔
 چاندنی کا پہرہ۔ (۱- مذ) اقبال مندی کا زانہ۔ نیگ ساحت۔
 چاندنی کا پیرا۔ (۱- مذ) مبارک قدم۔
 چاندنی کا تار۔ (۱- مذ) چاندنی سے بنایا ہوا تار (تختیر) معمولی زیور۔
 چاندنی کا جوتیا مسرہ۔ (۱- محاورہ) روپیہ دینے پر کام نکلا ہے۔
 چاندنی کا درق۔ (۱- مذ) چاندنی کا گنا ہوا نہایت باریک پتر۔
 چاندنی (کر دینا) کرنا۔ (۱- محاورہ) سفید کر دینا۔ جلا کر رکھ کر دینا۔
 چاندنی کی ریت نہیں۔ سونے کی توفیق نہیں۔ (۱- مثل) مذ یہ کر سکتے ہیں
 مرد اختیار میں ہے۔
 چاندنی ہونا۔ (۱- محاورہ) (۱) جل کر رکھ ہو جانا (۲) کامیابی ہونا۔

چاندنوا (چاں۔ و) (۱- مذ) دیکھیے چندو۔

چانس۔ (Chance) (انگ۔ ا) (مذ) اتفاق۔ موقع۔ امکان۔ احتمال باری
 چانسلر۔ (Chancellor) (چانس۔ لر) (انگ۔ ا) (مذ) مڈینورسٹی کا
 سب سے اعلیٰ عہدہ دار۔

چانک۔ (۱- مذ) (۱) ٹبر۔ چھٹا (۲) کڑی کی تھاپی جس پر سروف کندہ ہوتے
 ہیں اور اس سے کھلیاں پر چھٹا لگا دیتے ہیں (۳) جھاڑ پھونک کرنے
 کے واسطے درد کے چاروں طرف ملنے دینا۔

چاننگلا۔ (چانگ۔ لا) (۱- صفت) (۱) تندرست۔ جلا بنگلا۔ صحت مند مینو۔
 (۲) چالاک۔ چست۔ ہوشیار (۳) گھوڑوں کا ایک رنگ۔

چاؤل۔ (چا۔ ؤل) (۱- مذ) سفید فلذہ جسے اُبال کر کھاتے ہیں۔ دھان۔
 برنج (۲) وہ زبردہ یا بگری جو کسی نباتات یا غلے سے نکالی جاتی ہے (۳)
 ایک رتی کا آٹھواں حصہ۔

چاول چوانا۔ (۱- محاورہ) مشتبہ لوگوں کو کچے چاول کھلانا۔ یہ کہنا کہ جو چور
 جو گاس کے منہ سے خون نکل آئے گا۔ اس تدبیر سے کچے چور قبول دیتے ہیں
 چاہ۔ (ف۔ ا) (مذ) کنواں۔ غار۔ گڑھا۔

چاہ بابل۔ (۱- مذ) شہر بابل کا ایک کنواں جس کی بابت کہتے ہیں کہ ہاٹ
 مارت دونوں فرشتے وہاں قید ہیں۔

چاہ بیزن۔ (ف۔ ا) (مذ) وہ کنواں جس میں شاہنامہ فردوسی کی تحریر کے
 مطابق اشہر اسباب نے بیزن کو قید کیا تھا۔

چاہ خس پوش۔ (۱) وہ کنواں جسے چھانے کے لیے گھاس پھوس سے ڈھک
 دیا گیا ہو (۲) مگر۔ فریب۔

چاہ ڈقن (زخدال)۔ (ف۔ مذ) ٹھوڑی کا گڑھا۔
 چاہ رستم۔ (ف۔ مذ) وہ کنواں جس میں رستم قتل کیا گیا تھا۔

چاہ غنّب غنّب۔ (ف۔ مذ) ریشادوں کا گڑھا۔

چاہ گن را چاہ درپیش۔ (ف۔ مثل) بُرائی کرنے والا خود برائی کا شکار
 ہوتا ہے۔

چاہ محسب۔ (ف۔ مذ) وہ کنواں جس سے روایت ہے کہ حکیم حلایں متغنی نے
 اپنی مکت سے چاندنیکا لایا۔ یہ چاہ فرنگ تک روشنی پہنچاتا تھا۔

چاہ کوسف۔ (ف۔ مذ) ملک شام میں طبر کے قریب وہ کنواں جس
 میں حضرت یوسف کے سوتیلے بھائیوں نے انہیں پھینکا تھا۔

چاہ۔ (۱- مذ) (۱) خواہش۔ آرزو (۲) محبت۔ اُلفت۔ عشق۔ دوستی۔
 (۳) اشتیاق۔ شوق (۴) مزہ۔ لطف۔ محبوب (۵) ضرورت محبت
 (۶) مانگ (۷) چاہنا کا امر۔

چاہا (چہا)۔ (۱- مذ) ایک پرندہ۔

چاہست۔ (چا۔ ہست) (۱- مذ) (۱) خواہش۔ طلب۔ ضرورت (۲)
 عشق۔ محبت۔ پیار۔

چاہنا۔ (چا۔ نا) (۱- صفت) (۱) محبت کرنا (۲) پسند کرنا۔ قبول کرنا (۳) قصد
 کرنا۔ ارادہ کرنا (۴) مانگنا۔ درخواست کرنا۔

چاہنے کے نام سے گدی نے گھاس کھانا پھوڑ دیا تھا۔ (۱- مثل) اگر کسی
 سے محبت ظاہر کی جائے تو وہ بھاگتا ہے اور عاشق کے نزدیک نہیں ہوتا
 یا

زور کرنے لگتا ہے۔
 چاہو۔ (چا۔ ہو) (دہ۔ صفت) محبت کرنے والا۔ مشتاق۔ خواہش مند۔ آرزو مند۔
 چاہی۔ (چا۔ ہی) (دہ۔ صفت) وہ زمین جسے کنوئیں کا پانی سیراب کرتا ہے۔ کنوئیں سے منسوب۔
 چاہستی۔ (چا۔ ہے۔ تی) (دہ۔ صفت) پیاری۔ معشوقہ۔ محبوبہ۔
 چاؤ۔ (چا۔ او) (دہ۔ ۱۔ مذ) جوش۔ ارمان۔ شوق۔ آرزو (۶)
 نازد بخزہ۔ لاؤ۔
 چاؤ چوچلا۔ نازد بخزہ۔ لاؤ پیار۔
 چاؤ چوچلوں سے پالنا۔ (ابشل) لاؤ پیار سے پرورش کرنا۔
 چاؤ میں آنا۔ کسی سے محبت کے سبب معذور ہو جانا۔ خنزے کرنا۔
 مزے میں آنا۔
 چاؤ نکالنا۔ ارمان نکالنا۔ حسرت نکالنا۔ خواہش پوری کرنا۔
 چاؤش۔ (چا۔ اوش) (دہ۔ ۱۔ مذ) چوب دار۔ عصا بردار۔ نقیب۔
 چاؤں چاؤں۔ (چا۔ اول۔ چا۔ اول) (دہ۔ ۱۔ صفت) چڑیلوں کی دہشت کی آواز۔
 چاؤں چاؤں کر کے پیچھے پڑنا۔ (۱۔ محاورہ) شور مچا کر گرد ہو جانا۔
 چائے۔ (چا۔ اے) (دہ۔ ۱۔ صفت) ایک پودا جس کے پتوں کو جوش دے کر اور عرق نکال کر پیتے ہیں۔
 چائے پانی۔ (۱۔ مذ) (۱) ہلکانا شے (۲) رشوت۔
 چائے (دانی، پوچی)۔ (۱۔ صفت) وہ برتن جس میں چائے کا عرق رکھا جاتا ہے۔
 چائیں چائیں۔ (چا۔ ایس۔ چا۔ ایس) (دہ۔ ۱۔ صفت) چڑیلوں کی آواز۔
 بے کار شور۔
 چائیں مائیں۔ (چا۔ ایس۔ ما۔ ایس) (دہ۔ ۱۔ مذ) لڑکوں کا ایک کھیل۔

چاہینی۔ (چہ۔ نی) (دہ۔ صفت) چوچائی جانے۔
 چاہینی ہڈی۔ (دہ۔ صفت) لڑکھی ہڈی۔ وہ ہڈی جو بھر پھری اور پتلی ہو۔
 چہوانا۔ (چہ۔ وا۔ نا) (دہ۔ صفت) چہانا کا معنی المتدی۔
 چہوترا۔ (چہ۔ بُرت۔ را) (دہ۔ ۱۔ مذ) (۱) مربع یا مستطیل اُونچی بنائی ہوئی جگہ جس پر لوگ بیٹھے ہیں۔ چوترا (۲) کو توالی۔
 چہوترا باندھنا۔ (۱۔ محاورہ) چہوترا بنانا۔
 چہوترا چڑھانا (چڑھانا)۔ (۱۔ محاورہ) کو توالی پہنانا۔ معاملہ کی کو توالی میں رپورٹ ہونا۔
 چہوانا۔ (چہ۔ بھانا) (دہ۔ صفت) چہوانا۔ نوک دار چیز کو جسم کے اندر لکھڑانا۔
 چہجھتی بات۔ (چہ۔ تی۔ بات) (دہ۔ ۱۔ صفت) ایسی بات جو دوسرے کے دل کو ناگوار کرتے پستے یا بھید کی بات۔
 چہجھتی ہوئی سُنانا۔ (۱۔ محاورہ) کھری کھری سُنانا۔
 چہجھن۔ (چہ۔ جھن) (دہ۔ ۱۔ صفت) کھٹک۔ درد۔
 چہجھنا۔ (چہ۔ جھنا) (دہ۔ صفت) (۱) چھنا۔ (۲) کھٹکانا۔ درد ہونا۔ ناگوار گزارنا۔ (۳) دل لگانا۔ دل پھراتر کرنا۔
 چہجھونا۔ (چہ۔ جھونا) (دہ۔ صفت) کسی نوک دار شے کا بھونکنا۔ پیوست کرنا۔
 چہجھینا۔ (چہ۔ جھینا) (دہ۔ ۱۔ صفت) (۱) غلے کے جھنے ہوئے دانے (۲) کوئی چہجھتی جانے والی چیز۔
 چہجھینی۔ (چہ۔ جھینی) (دہ۔ ۱۔ صفت) (۱) چہجھنی کی تائینٹ (۲) جھنے ہوئے دانے جو مزدور یا مزدیب کھاتے ہیں (۳) جھنے ہوئے دانے اور مٹھائی جو ہندو لوگ دوپہر کے وقت برات کو دیتے ہیں (۴) خشک خوراک جیسے تلی۔ دال۔ شکر پارے۔ مٹھائی وغیرہ۔

چ - پ

چب۔ (دہ۔ صفت) (۱) بایاں۔ بایں طرف۔ اُلٹے ہاتھ کی طرف (۲) دو رنگ کا۔ دورنگ (۳) پاؤں کی آواز۔ چپ۔
 چپ وراست۔ (۱) بایں بایں۔ ہر طرف۔ ادھر ادھر۔
 چپ۔ (دہ۔ ۱۔ صفت) خاموشی۔ سکوت۔ نہ بولنا (۲) خاموش رہو۔
 چپ آدمی اور بندھے پانی سے ڈرنا چاہیے۔ (۱) بشل آدمی کی خاموشی اور بند پانی دونوں سے ڈرنا چاہیے۔
 چپ آدمی مرضی۔ (۱) بشل جو اب میں کوئی اگر نہ لوے تو سمجھا جاتا ہے کہ وہ مرضی ہے۔
 چپ باندھنا۔ خاموشی اختیار کرنا۔ ساکت ہونا۔ جواب نہ بن پڑنا۔ نہ بول سکا۔
 چپ (چپ) چپا تے۔ خاموشی سے۔ آہستہ آہستہ چپکے چپکے بغیر۔
 چپ (چپ) گلب۔ (۱) خاموشی۔ کم گو (۲) خاموش رہ۔ صمت بول۔
 چپ چھٹال۔ (۱) صفت) عزیز صورت۔ بدکار عورت۔
 چپ رہ جانا (سادھنا)۔ (۱) محاورہ) خاموشی اختیار کرنا۔

ب - پ

چبا جانا۔ (چہ۔ با۔ جا۔ نا) (دہ۔ صفت) کھا جانا۔ دانتوں میں کچل ڈالنا۔
 چبا چبا کر بایں کرنا۔ (۱۔ محاورہ) تکلف سے بایں کرنا۔
 چبا ڈالنا۔ (چہ۔ با۔ ڈال۔ نا) (دہ۔ صفت) کاٹ کھانا۔ دانتوں سے پس ڈالنا۔
 چباننا۔ (چہ۔ بانا) (دہ۔ صفت) دانتوں سے پینا۔ دانتوں سے کھلنا۔
 چہڑ چہڑ۔ (چہ۔ چہڑ۔ چہڑ۔ دہ۔ ۱۔ صفت) بگ بگ۔ بکواس۔
 چہڑ چہڑ بایں کرنا۔ (۱۔ محاورہ) بے سوچے کچھ بایں کرنا۔
 چنگ۔ (چہ۔ بگ) (دہ۔ ۱۔ صفت) بول۔ ہول۔ پیڑ۔
 چنگنا۔ (چہ۔ بگ۔ نا) (دہ۔ صفت) بولنا۔ زخم کا درد کرنا۔
 چہل۔ (چہ۔ بھل) (دہ۔ صفت) دیکھے۔ چہلا۔
 چہلا۔ (چہ۔ بھل۔ لا) (دہ۔ صفت) (۱) چھپورا۔ بھلا۔ (۲) سزا۔ شرارتی۔
 چہلا پن۔ چھپورا پن۔ بھلا پن۔ سزا پن۔ شرارت۔
 چہلا نا۔ چہل۔ لا۔ نا) (دہ۔ صفت) (۱) چہلانا (۲) بات من میں کرنا۔ صاف نہ بولنا۔
 چہلی۔ (دہ۔ بھل۔ لی) (دہ۔ صفت) چہلی کی تائینٹ۔ شریر۔ مسخری۔

چمپٹی - (چپ - ٹی) (۱) فرج سے فرج لڑانا - طبق زنی (۲) (صفت) اندر کو
 چمپٹی بیٹھی ہوئی - بھگی ہوئی -
 چمپٹی لڑانا - طبق زنی کرنا -
 چمپٹی ناک - بیٹھی ہوئی ناک -
 چمپٹیا - (چپ - ٹ) (یا - ہ) (۱) مٹ [چوٹا کی تائینٹ -
 چپ رہنا - (چپ - ج - پا) (۲) صفت [لیس دار چمپ دار - چکنے والا -
 چپ چپانا - (چپ - ج - پا - نا) (۳) مص [چمپنا - لیس دار ہونا -
 چپ چپا ہٹ - (چپ - ج - پا - ہٹ) (۴) مٹ [چپ - لیس -
 چپ چپنگ - (چپ - ج) (چپ - بک) (۵) مٹ [(۱) ایک قسم کی
 ابا بیل (۲) (صفت) دھلا پتلا -
 چچ سائمنہ نکل آنا - (۱) محاورہ (۲) دہلا ہوجانا - مٹے کا لاغر ہوجانا -
 چچرا - (چپ - را) (۳) صفت (۱) مگر جانے والا (۲) زبردستی سے - سینہ
 زوری سے (۳) ناگہاں - یکایک -
 چچرا چچرا کر باتیں کرنا - (۱) محاورہ (۲) اصل بات کو چھپا کر باتیں کرنا -
 چچرا لینا - (۱) محاورہ (۲) چھوٹا کر دینا -
 چچرا - (چپ - را) (۳) مٹ (۱) گوند (۲) وہ میل جو آنکھوں سے نکلے -
 چچراس [چچراس - (چپ - راس) (چپ - ٹاس) (۳) مٹ (۱) [چچراس
 کی پٹی (۲) بوڑھی دھجی جو کرتے میں مونڈے پر ڈالی جاتی ہے -
 (۳) بوڑھی گوٹ (۴) کشتی کا ایک داؤل (۵) تصاریف کی اصطلاح
 میں دان کے نیچے کا گوشت -
 چچراس (پہننا) لگانا - (۱) محاورہ (۲) چچراس ہونا چچراسی کا عہدہ حاصل ہونا -
 چچراس مارنا - (۱) محاورہ (۲) حریف کی پینڈی پر پاؤں کی ضرب لگانا -
 چچراسی - (چپ - راسی) (۳) مٹ (۱) وہ شخص جو چچراس پہنے - اردلی -
 پیادہ - سپاہی -
 چچرانا - (چپ - را - نا) (۳) مص [بھٹلانا - چنرانا -
 چچرنا - (ج - پڑ - نا) (۳) مص [بلا جانا - جاگ جانا - پوشیدہ ہوجانا -
 چچرا - (چپ - ٹا) (۳) مٹ (۱) صاف کی ہوئی لاکھ - عمدہ لاکھ -
 چچرا - (چپ - ٹا) (۳) صفت (۱) وہ شخص جس کی آنکھوں میں کچھ بھرا رہے -
 چچرا کر دینا - برباد کر دینا - تباہ کر دینا -
 چچراس - (چپ - ٹاس) (۳) مٹ (۱) وہ بیٹی یا بیٹے جسے چچراسی پہننے میں
 اور جس پر حکم کا نشان ہوتا ہے - دیکھئے چچراس -
 چچرا چچرا - (ج - پڑ - ج - پڑ) (۳) مٹ (۱) مٹ (۱) کھانے کی آواز - کتے کے پانی
 پینے کی آواز -
 چچرا چچرا باتیں کرنا - (۱) محاورہ (۲) بے سمجھے بوجھے گفتگو کرنا - بغیر ادب و
 لحاظ کے باتیں کرنا - بک بک کرنا - یادہ گوئی کرنا -
 چچرا چچرا کھانا - (۱) محاورہ (۲) بد تیزی سے آواز پیدا کر کے کھانا -
 چچرا چچرا - (ج - پڑ - خن - دی) (۱) مٹ (۱) آوارہ گرد - بازاری عورت -
 چچرا دینا - چچرا کرنا - (ج - پڑ - دے - نا) (۳) مٹ (۱) مص [روغن
 لگا دینا - چکانا -
 چچرا - (ج - پڑ - غٹ - ٹو) (۱) مٹ (۱) بے ہوش - مدہوش (۲)

چب شاہ کا روزہ - (۱) محاورہ (۲) ایک منت جس میں چب رہا جاتا ہے -
 چب کرنا - (۱) خاموش ہونا - بات کرنے سے رکن - لا جواب ہونا -
 چب کی داد دیتا ہے - (۱) بشل (۲) صبر کا بیل بیٹھا ہوتا ہے -
 چب لگانا - (۱) محاورہ (۲) سکوت اختیار کرنا -
 چب لگ جانا - (۱) محاورہ (۲) آدمی کے ساتھ خاموش ہوجانا کسی بات
 کا جواب نہ دینا اور نہ بات کرنا -
 چب لگنی چب لگنی - خاموش رہنا -
 چب ناندھنا - (۱) محاورہ (۲) خاموشی اختیار کرنا - ساکت ہوجانا -
 چب ہوجانا - (۱) محاورہ (۲) خاموش ہوجانا - جواب نہ دے سکا -
 چبنا - (چپ - پا) (۳) مٹ (۱) بالشت بھر (۲) چار انگل کی چوڑائی (۳)
 چار بالشت -
 چبنا بھر - (۱) چار انگل (۲) چار بالشت - تھوڑا سا - ذرا سا -
 چبنا زمین چھان ڈالنا - (۱) محاورہ (۲) ہر جگہ تلاش کرنا -
 چبے چبے مٹی کو کھڑی اور میاں مٹے دار - (۱) بشل (۲) معمولی حیثیت اور
 اگلا فو اسی -
 چبنا - (چپ - پا) (۳) مٹ (۱) کاغذ کا چھوٹا ٹکڑا -
 چبنا - (ج - پا - تی) (۳) مٹ (۱) پتلی روٹی - پھلکا -
 چبنا بڑھانا - (۱) محاورہ (۲) چبنا کو مٹی کے زور سے بڑا کرنا -
 چبنا سا پیٹ - (۱) مٹ (۲) نرم اور بیٹھنے کے ساتھ لگا ہوا پیٹ -
 چبنا سا پیٹ لگ جانا - (۱) محاورہ (۲) خالی پیٹ کا چبک جانا -
 چبنا چب - (ج - پا - چپ) (۳) صفت (۱) خاموش -
 چبنا - (۳) صفت (۱) چور باز (۲) چور باز -
 چبنا - (۳) مص (۱) شرمندہ کرنا - نادم کرنا (۲) شرمانا - جھینپنا -
 چبنا - (ج - پت) (۳) مٹ (۱) مٹ (۲) پتھر - دھول - چاشا - دھتیا -
 چبنا رید کرنا چبنا چبنا لگانا چبنا مارنا - چاشا مارنا
 چبنا مارنا -
 چبنا گاہ - چبنا کی جگہ - جہاں چاشا مارا جائے - ٹانٹ - سر -
 چبنا لگنا - پتھر لگنا - چاشا بڑا ہونا -
 چبنا - (ج - پت) (۳) مٹ (۱) چبنا کا مختلف صفت مرکبات میں استعمال ہوتا
 چبنا باز - (۳) صفت (۱) چبنا کیلے والی عورت - فرج سے فرج لڑانے
 والی - طبق زنی -
 چبنا بازی - چبنا کھیلنا - فرج سے فرج لڑانا - طبق زنی - غلط ترکیب -
 چبنا - (چپ - ٹا) (۳) مٹ (۱) اندر کو بیٹھا ہوا - چوڑا - پھلکا - دبا ہوا - برابر
 (۲) وہ شخص جس کی ناک بیٹھی ہوئی ہو -
 چبنا کرنا - اندر کو بٹھا دینا - برابر کرنا - چوڑا اور پتلا کرنا - دبا دینا -
 چبنا - (چپ - ٹا) (۳) صفت (۱) چپ دار - لیس دار - چکنے والا -
 چبنا - (چپ - ٹا - نا) (۳) مص (۱) پٹا لینا - گلے سے لگا لینا (۲) چپکانا -
 چبنا جانا - چبنا - (ج - پت - نا) (۳) مٹ (۱) مٹ (۱) مص (۱) [۱]
 پٹ جانا (۲) چپکانا - علی جانا -
 چبنا - (ج - پت - نا) (۳) مص (۱) چپکانا - پٹنا -

پھلنی - (جیب - نی) (دہ - ۱ - مٹ) (۱) ٹانگی کا مٹی کا سرپوش (۲) چھوٹا پتھر۔
 (۳) ڈھکنی (۴) گھٹنے کے سامنے کی ہڈی۔
 پھلنی بھر پانی میں ڈوب کر مرنے - (۱) عمارت (۲) نہایت شرمندہ ہونا - شرم
 اور نیرت دلانے کے موقع پر کہتے ہیں۔
 پھلنی چاٹ کر نوزدان کرنا - (۱) عمارت (۲) نہایت قناعت اور صبر سے گزارا کرنا۔
 پھتو - (جیب - پو) (دہ - ۱ - مذ) (۱) کشتی کھینے کا ڈنڈا جو آگے سے چوڑا ہوتا ہے۔
 (۲) ایک قسم کا جوتا۔ پتیل۔
 پھتو (چھلانا) مارنا - کشتی کھینا۔
 پھوٹا - (جیب - پو) (دہ - ۱ - مذ) (۱) تانچا۔ پھڑ - دھب۔
 پھوٹی - (جیب - پو) (دہ - ۱ - مٹ) (۱) چھوٹی ٹی۔ (۲) چھوٹی ٹی۔ ادنی۔ گھٹیا ٹی۔
 (۳) پھٹی ہوئی پرانی پگڑی۔
 پھٹی - (جیب - پی) (دہ - ۱ - مٹ) (۱) اعضا کی مالش - ہاتھ پاؤں دبانے۔
 پھٹی - (جیب - پی) (دہ - ۱ - مٹ) (۱) کاغذ کا چھوٹا سا ٹکڑا۔
 پھٹی - (جیب - پی) (دہ - ۱ - مٹ) (۱) خاموشی۔
 پھٹیٹ - (جیب - پیٹ) (دہ - ۱ - مذ) (۱) دھول - تانچا (۲) مٹ (۳) بھیٹ (۴)
 خیف جوت - دھکا - جھڑپ (۴) ناگہانی آفت (۵) نقصان - گھانا۔
 پھیٹا - (جیب - پی) (دہ - ۱ - مذ) (۱) پھڑ - دھول (۲) بدردھول کا اثر۔
 (۳) حرامی بچہ (۴) صفت (۵) حرامی (۵) چھینا ہوا۔
 پھیٹنا - (جیب - پی) (دہ - ۱ - مٹ) (۱) چکانا۔ چھٹنا (۳) گلے ٹھننا۔
 (۳) روزگار سے لگا دینا۔ نااہلی کے باوجود نوکر کر دینا۔

اسیر - گرفتار (۳) گھم گھٹا۔ مٹ - پٹ۔
 پھڑ قناتیا - (جیب - پی) (دہ - ۱ - مٹ) (۱) خوشامدی - کینہ۔
 ذیل - قناتیا میں - رندی کے ہاتھ سے مارا جانے والا۔
 پھڑنا - (جیب - پی) (دہ - ۱ - مٹ) (۱) بھانگنا۔ دوڑنا۔ کھسک جانا۔ فرار ہونا۔
 پھڑنا - (جیب - پی) (دہ - ۱ - مٹ) (۱) چرب کرنا۔ کھی لگانا (۲) روغن کرنا۔
 پاش کرنا (۳) عیب چھٹانا (۴) خوشامد کرنا۔
 پھڑی - (جیب - پی) (دہ - ۱ - مٹ) (۱) پھڑکی تانیٹ - وہ عورت جس کی آنکھوں
 میں نیل بھرا ہے۔ چنڈھی۔
 پھڑی - (جیب - پی) (دہ - ۱ - مٹ) (۱) روغن لگی ہوئی (۲) خوشامد۔
 پھڑی اور دو دو - (۱) ایش (۲) اچھی چیز اور زیادہ مقدار میں۔
 پھڑی پھنی - (۱) مٹ (۲) خوشامد کی بیٹی بیٹی بایں۔
 پھڑی روٹی - (۱) مٹ (۲) وہ روٹی جس پر گھی لگا ہو۔
 پھڑش - (جیب - پی) (دہ - ۱ - مٹ) (۱) توار کی لٹائی (۲) جھلکا۔
 نکوار - (۱) خساد (۲) بیڑ - بجوم (۳) جگہ کی تنگی - لام کی زیر اور
 زبردوئیوں مستعمل ہیں۔
 چبک - (جیب - پی) (دہ - ۱ - مٹ) (۱) چب چپا ہٹ - لیس - چیب۔
 چبک - (۱) مٹ - چبک - درد۔
 چبک ہونا - (۱) عمارت (۲) بیٹ میں میٹھا دود ہونا۔
 چبک جانا - چبکنا - (۱) لیٹ جانا (۲) آشنا ہو جانا - اچھنا - پھننا۔
 (۳) روزگار سے لگنا۔ نوکر ہونا (۴) جڑنا۔
 چبکا - (جیب - پی) (دہ - ۱ - مٹ) (۱) چب - خاموش (۲) عیار - فریبی۔
 چبکنا - (جیب - پی) (دہ - ۱ - مٹ) (۱) چبنا کرنا۔ لیس دار چیز سے جوڑنا۔
 (۲) نوکر کی دلانا۔ کسی کام میں اٹکا دینا (۳) تعلق یا آشنا پیدا کر دینا۔
 چبکن - (جیب - کن) (دہ - ۱ - مٹ) (۱) ایک قسم کی تبا جس میں گریبان نہیں ہوتا
 نہ لنگوں کے نیچے سلائی ہوتی ہے اور آستین لگتی رہتی ہے۔
 چبکن (چٹوانا) چھٹنا - چبکن کی آستینوں پر کشیں ڈالنا۔
 چبکنا - (جیب - پی) (دہ - ۱ - مٹ) (۱) نس سے جڑنا (۲) روزگار سے لگ
 جانا (۳) جڑنا۔ چھٹنا۔ چبنا ہونا (۴) آشنا ہونا۔
 چبکوانا - (جیب - پی) (دہ - ۱ - مٹ) (۱) چبکنا کا متعدی متعدی۔
 چبکی - (جیب - پی) (دہ - ۱ - مٹ) (۱) خاموشی - سکوت (۲) چھیننا۔ کینا نا۔
 چبکی سادھنا - (۱) عمارت (۲) خاموشی اختیار کرنا۔
 چبکی لگ جانا - (۱) عمارت (۲) خاموش ہو جانا۔
 چبکی - (جیب - پی) (دہ - ۱ - مٹ) (۱) آہستہ سے۔ خاموشی سے۔
 چبکی چبکی رونا - یوں رونے کا آواز نہ نکلے۔ آہستہ آہستہ رونا۔
 چبکی سے کہنا - آہستہ سے کہنا۔
 چبکی چبکی - (جیب - پی) (دہ - ۱ - مٹ) (۱) ایک قسم کا جوتا۔
 چبکی - (جیب - پی) (دہ - ۱ - مٹ) (۱) ٹانگی کا ڈھکنا۔ سرپوش (۲) بیوقوف
 (۳) رشوت۔ بالائی آمدنی۔
 چبنا - (جیب - پی) (دہ - ۱ - مٹ) (۱) بنا۔ چھٹنا (۲) شرمندہ ہونا۔ چھیننا۔
 (۳) ڈر سے کا پینا۔ ہار ماننا۔

ج - ت

چت - (دہ - ۱ - مٹ) (۱) رشت کے بل۔ سینے کے رخ۔
 چت بھی میری پٹ بھی میری - (۱) مثل (۲) ہر طرح اپنا ہی ناندہ ڈھونڈنا۔
 چت پٹ - (دہ - ۱ - مٹ) (۱) کسی چیز کے چت یا پٹ گرنے پر ایک قسم کا کیل
 جس میں شرط لگاتے ہیں جس کا کہنا ہو جانا ہے وہ جیت جاتا ہے۔
 چت پڑنا - (۱) عمارت (۲) پیٹھ کے بل لیٹنا۔ اوندھا پڑنا۔
 چت کرنا - (۱) چھٹنا (۲) پیٹھ کے بل کرنا۔
 چت لیٹنا - (۱) عمارت (۲) پیٹھ کے بل لیٹنا۔
 چت (جو جانا) ہونا - (۱) چھٹنا (۲) مر جانا (۳) نٹے میں بے ہوش
 ہونا (۵) غشی میں ہونا (۶) مات کھانا۔ ہار جانا۔
 چت - (دہ - ۱ - مٹ) (۱) نظر - چتون (۲) خیال - دھیان - توجہ (۳) دل
 جی (۴) سمجھ - عقل - تیز شعور (۵) حافظہ - یاد۔
 چت بٹانا - (۱) عمارت (۲) توجہ بٹانا۔ خیال دوسری طرف کرنا۔
 چت بھنگ ہونا - (۱) عمارت (۲) عقل و ہوش کو دینا۔ خیال بٹ جانا۔
 چت پر چھٹنا - (۱) عمارت (۲) ذہن نشین ہونا۔ خیال میں جانا۔ دل میں لگنا۔
 چت پور - (۱) مشق (۲) دل کو دھینے یا چرانے والا (۳) کرشن جی
 کا ایک لقب۔

چبکنا - (جیب - پی) (دہ - ۱ - مٹ) (۱) چبنا کرنا۔ لیس دار چیز سے جوڑنا۔
 (۲) نوکر کی دلانا۔ کسی کام میں اٹکا دینا (۳) تعلق یا آشنا پیدا کر دینا۔
 چبکن - (جیب - کن) (دہ - ۱ - مٹ) (۱) ایک قسم کی تبا جس میں گریبان نہیں ہوتا
 نہ لنگوں کے نیچے سلائی ہوتی ہے اور آستین لگتی رہتی ہے۔
 چبکن (چٹوانا) چھٹنا - چبکن کی آستینوں پر کشیں ڈالنا۔
 چبکنا - (جیب - پی) (دہ - ۱ - مٹ) (۱) نس سے جڑنا (۲) روزگار سے لگ
 جانا (۳) جڑنا۔ چھٹنا۔ چبنا ہونا (۴) آشنا ہونا۔
 چبکوانا - (جیب - پی) (دہ - ۱ - مٹ) (۱) چبکنا کا متعدی متعدی۔
 چبکی - (جیب - پی) (دہ - ۱ - مٹ) (۱) خاموشی - سکوت (۲) چھیننا۔ کینا نا۔
 چبکی سادھنا - (۱) عمارت (۲) خاموشی اختیار کرنا۔
 چبکی لگ جانا - (۱) عمارت (۲) خاموش ہو جانا۔
 چبکی - (جیب - پی) (دہ - ۱ - مٹ) (۱) آہستہ سے۔ خاموشی سے۔
 چبکی چبکی رونا - یوں رونے کا آواز نہ نکلے۔ آہستہ آہستہ رونا۔
 چبکی سے کہنا - آہستہ سے کہنا۔
 چبکی چبکی - (جیب - پی) (دہ - ۱ - مٹ) (۱) ایک قسم کا جوتا۔
 چبکی - (جیب - پی) (دہ - ۱ - مٹ) (۱) ٹانگی کا ڈھکنا۔ سرپوش (۲) بیوقوف
 (۳) رشوت۔ بالائی آمدنی۔
 چبنا - (جیب - پی) (دہ - ۱ - مٹ) (۱) بنا۔ چھٹنا (۲) شرمندہ ہونا۔ چھیننا۔
 (۳) ڈر سے کا پینا۔ ہار ماننا۔

چترنی - (۱-۵) مٹ، عورت کی چار قسموں میں سے ایک قسم۔ نازک عورت۔
چت کبرا - (چت، کب - را، ۵-۵) صفت (۱) دبتے دار - (۲) داغ دار (۲)
سیندو سیاہ رنگ - اہلی -

چٹلا - (چت - لا، ۵-۵) صفت (۱) چت کبرا - داغ دار -
چٹنا - (چت - نا، ۵-۵) صفت (۱) دیکھنا - نظر کرنا - نظر ڈالنا (۲) ظاہر ہونا -
معلوم ہونا (۳) نقش و نگار کرنا - تصویر بنانا -

چتون - (چت - ون، ۱-۵) مٹ (نظر - نگاہ - تیوری -
چتون بنانا - (۱) عمارت) تیوری پڑھانا - غصے کی نظر سے دیکھنا -
چتون پر میل آنا - (۱) عمارت) خفا ہونا - ناگوار کرنا -
چتون پھرنا - (۱) عمارت) نگاہ کا غصے سے بھرا ہونا -
چتون پڑھانا - (۱) عمارت) تیوری پڑھانا -

چتون کے دیتی ہے - (۱) مثل) نگاہ سے معلوم ہوتا ہے - نظر سے ظاہر ہے -
چٹھا - (چٹھ - ٹھا، ۵-۵) صفت (۱) جو کسی دوسرے کے مذاق کا مرکا بنا ہو -
(۲) وہ جسے کوئی دشمنی کرے (۳) دوسروں کا ستا یا ہوا -
چٹھا بلیر - (۵-۵) مذ (۵) آدمی جسے ہر ایک پریشان کرے -
چٹھا بنانا - (۱) عمارت) ذلیل کرنا - رسوا کرنا - بڑائی کرنا -

چٹھاڑ - (چٹھاڑ - ٹھاڑ، ۵-۵) مٹ (رسوائی - خواری - ذلت -
چٹھاڑنا - (چٹھاڑ - ٹھاڑ، ۵-۵) صفت (۱) پھاڑنا - پیرنا - جھینڑے چیتڑے کرنا (۲)
ذلیل کرنا - رسوا کرنا -

چٹھڑا - (چٹھڑا - ٹھاڑ، ۵-۵) مٹ (۱) پھاڑنا - پیرنا - جھینڑے چیتڑے کرنا (۲)
گودڑ - لیرا - لوگرا - بلیر -
چٹھڑے (چیتھڑے) اڑانا (بکھیرنا) - (۱) عمارت) نکتے لینا - درست
کرنا - آڑے ہاتھوں لینا -

چٹھڑے کرنا - پڑزے پڑزے کرنا -
چٹھڑے لگانا - (۱) عمارت) بیوند پر بیوند لگانا - گودڑ یا فیر بنا پھرنا -
چٹھڑے لگانا - (۱) عمارت) غصے کے مارے ثابت کپڑے نہ پہن سکتا -
چٹھڑیا - (چٹھڑ - ٹھاڑ، ۵-۵) صفت (۱) پھٹے پڑانے کپڑے پہننے ہوئے -
پھٹے حال -

چٹھڑیا پیر - (۱) ایک پیر جس کو پھٹے پڑانے کپڑے پڑھاتے ہیں (۲)
وہ درخت جس پر پیر کے نام پر کپڑے پڑھائے جائیں (۳) بہت منگس -
چٹھڑیل - (چٹھڑ - قتل، ۵-۵) صفت (۱) سوزا - ٹھٹھے ہار ٹھٹھویا - ظریف -
چٹھڑیل بازی - (۱) مٹ (۱) ٹھٹھے بازی - ہنسی - بیہودہ ہنسی - تہنہ -
چٹھڑیل پنا دکھانا - (۱) عمارت) مزاحیہ کہنا - ہنسی اڑانا - ٹھٹھا اڑانا -

چٹھڑیل - (چٹھڑ - لا، ۵-۵) صفت (۱) دیکھے چٹھا -
چٹھی - (چت - ٹی، ۵-۵) مٹ (۱) بندگی - دھبا - داغ - نشان - ہٹاسا -
(۲) سانپ کی ایک قسم جس پر چٹھی ہوتی ہے (۳) کوڑی جس پر
چٹھیاں ہوتی ہیں -

چٹھی پڑنا - (۱) عمارت) روٹی کا بننا - روٹی پر یک جانے کی علامت کا ظاہر
ہونا - مرنے نشان پڑنا - لال لال بندکیاں پڑ جانا -
چٹھی دار - داغ دار -

چت سے اتر جانا (اُترنا) - (۱) عمارت) بھول جانا - دھیان میں نہ رہنا - یاد نہ رہنا
چت لگانا - (۱) کسی کام میں دل لگانا - متوجہ ہونا (۲) خواہش کرنا -
محبت کرنا -

چت لگن - خوش کن - دل فریب -
چت میں بیٹھنا - دل میں اثر کرنا - دل میں گھر کرنا -
چت ہٹانا - دھیان ہٹانا - توجہ دوسری طرف کرنا -

چتا - (چ - تا، ۱-۵) مٹ (۱) لکڑیوں کا ڈھیر جس پر ہندو مردے کو
جلائے ہیں -
چتا پنڈ - (۱) دودھ - روٹی - چاول وغیرہ جو مردہ جلائے وقت
پتروں کو پڑھاتے ہیں (۲) چاول اور دودھ یا آٹے کا پنڈ جسے
ہندو قوشہ عاقبت خیال کر کے تیجے کے دن بہاتے ہیں -
چتا چٹنا - (۱) عمارت) مردہ جلائے کے لیے لکڑیاں ڈھیر کرنا -
چتا میں بیٹھنا - (۱) عمارت) سستی ہونے کے لیے چتا پر پڑھنا -

چتانا - (چ - تا، ۵-۵) مٹ (۱) چتانا - ہوشیار کرنا (۲) نصیحت کرنا -
(۳) توجہ دلانا (۴) ڈرانا -
چتاؤنی - (چ - تا، ۵-۵) مٹ (۱) نشان - علامت (۲) اطلاع - آگاہی
(۳) ڈر - خوف (۴) یاد دہانی -

چتر - (چ - ٹ، ۱-۵) مذ (۱) پھاتا - بڑی پھتری -
چتر شاہی - بادشاہی - پھتری -
چتر - (چ - ٹ، ۵-۵) مٹ (۱) چالاک - تیز - چست (۲) کاری - گراہر
دانا - عقل مند (۳) مکار - عیار (۴) مستحق -

چتر بھدرا - انسان کی زندگی کے چار مقاصد - دھرم (دینی کام) خوشی
ارٹھ (دولت) کمش (مکتی) -
چتر و دیا - (۵-۵) مٹ (۱) چار دیدوں کا عمل -
چتر وید - (۵-۵) مذ (۱) چاروں ویدوں کا مجموعہ (۲) چاروں وید (۳)
ایک قسم کے پتر -
چتر ہوتی - (۵-۵) مذ (۱) کرشن جی -

چتر ہوتی - ایک مرتبہ جسے چاند یا پورے چاند کے موقع پر پڑھا جاتا ہے
چترا - (چت - را، ۵-۵) مٹ (۱) پودھوں یا ہار جوں پھتر (۲) ایک
پودے کا نام (۳) ایک سانپ کا نام (۴) ایک بحر یا وزن (۵)
ایک ساز (۶) ارجن کی بیوی اور کرشن جی کی بہن سمندرا (۷) کرشن جی
کی ایک بیٹی (۸) غیر حقیقی حالت - مصنوعی چیز - دھوکا کھانا (۹) ایک
اپسرا (۱۰) ایک دریا - ایک چشمان -

چترا - (چت - را، ۵-۵) مٹ (۱) چالاک - عقل مند -
چترانی - (چ - ٹ، ۵-۵) مٹ (۱) ہوشیاری - دانائی - چالاک -
تیزی - ہنرمندی -

چترنگ - (چت - رنگ، ۵-۵) مٹ (۱) وہ فوج جس میں رتھ - ہاتھی -
گھوڑے - سوار اور پیادے شامل ہوں - چار رنگ کی فوج (۲) شطرنج
چترنی - (چت - ٹ، ۵-۵) مٹ (۱) کسی رنگ کا (۲) بہت قابل آدمی -

چتیرا - (ج - تے - را) - (۱-۵) مذ، دعوات کے برتن کوئی کرصاف کرنے یا ان پر نقش و نگار بنانے والا۔

ج - ط

چٹ - (وہ - تابع فعل) (۱) - فرأ - اسی وقت - تڑت - اُسی دم - اُسی گھڑی - فی الحال (۲) - آتشک کا زخم - رگڑ (۳) - کسی سخت چیز کے دفعہ ٹوٹنے سے آواز پیدا ہونا (۴) - چاٹ لینا (۵)

چٹنا کا امر - نکل جانا۔

چٹ بھسکم - سب کچھ کھا جانا - کچھ نہ چھوڑنا۔

چٹ پٹ - (۱) - تابع فعل (۱) - (۱) فی الغور (۲) بہت جلد - تڑت - معاً۔ (۳) - یکا یک - یک بیک - ناگاہ - دفعہ۔

چٹ پٹ (ہونا) - چو جانا - (۱) - محاورہ) جلدی سر جانا - ناگہانی موت ہو جانا - اچانک واقع ہونا۔

چٹ پٹی - (۱) - جلدی - تیزی - سُرعت (۲) - ناگہانی موت (۳) - کئی موتیں اُپر تلے ہو جانا (مث) - خوب کرداری چیز جس میں خوب ننگ سرچ پڑا ہو۔

چٹ چٹ بلائیں لینا - (۱) - محاورہ) دونوں ہاتھوں سے اس طرح بلائیں لینا کہ دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کے چٹنے سے آواز پیدا ہو۔

چٹ چٹ چوڑیاں ٹوٹنا - (۱) - محاورہ) متواتر چوڑیاں ٹوٹنا۔ پے درپے آواز سے چوڑیاں ٹوٹنا۔

چٹ سے ٹوٹنا - آواز سے کسی چیز کا ٹوٹنا۔

چٹ (دکر جانا یا) کرنا - (۱) - سب کچھ کھا جانا (۲) - تباہ کرنا - برباد کرنا۔ (۳) - ہنسنے کر جانا - اڑا لینا - قلب کر لینا۔

چٹ منگنی، پٹ بیاہ - (۱) - مثل (کسی کام کے کرنے میں جلدی کرنے کے موقع پر کہتے ہیں۔

چٹ مری منگنی پٹ مر بیاہ - ٹوٹ گئی منگنی رہ گیا بیاہ - (ایشل انسانی کاموں کی بے بنیاد اور بے اعتباری ثابت کرنے کو کہتے ہیں۔

چٹ ہو جانا - (۱) - محاورہ) دیکھتے چٹ کر جانا۔

چٹ - (۱) - (مث) (۱) - کپڑے یا کاغذ کی دھبی - کاغذ کا پرچہ - کاغذ کا مستطیل یا چوکور پرچہ جو دو اڑوں کی شیشیوں وغیرہ پر چپاں کیا جاتا ہے (۳) - درزش کرنے والوں کا فنکوٹ (۴) - زمین جو مستطیل شکل کی ہو۔

چٹ لگانا - (۱) - محاورہ) کسی چیز پر کاغذ وغیرہ کا ٹکڑا لگانا۔

چٹا - (چٹ - ٹا) - (۱) - (مث) (۱) - شاکر - طالب علم (۲) - الزام - تہمت (۳) - ڈھیر - اینٹوں کا ڈھیر (۴) - کمان کا ٹکڑا جو کم مشقی سے ہر بار اس کے قبضہ پر پڑے۔

چٹا - (چٹ - ٹا) - (۱) - (مث) (۱) - مہینہ - گورا - اُجلا - (۱) - مذ چاندی کا رنگ رو پیسہ۔

چٹا پٹی - (ج - ٹا - پ - ٹ) - (۱) - (مث) (۱) - مارا مار - دھڑا دھڑی۔

(۲) - تاش کا ایک کھیل (۳) - موت پر موت۔

چٹا پٹی پڑنا - (۱) - محاورہ) کثرت سے موتیں واقع ہونا۔

چٹا پٹی کی گوٹ - مختلف رنگوں کا عایشہ یا گوٹ۔

چٹا چٹ - (ج - ٹا - چٹ) - (۱) - (مث) (۱) - انگلیوں کے پے درپے چٹکنے کی آواز۔

چٹاخ - چٹاک - (ج - ٹاخ - ج - ٹاخ) - (مث) (۱) - (مث) (۱) - کسی چیز کے ٹوٹنے کی آواز۔ انگلیوں کے چٹکنے کی آواز۔

چٹاخ پٹاخ - (ج - ٹاخ - پ - ٹاخ) - (مث) (۱) - (مث) (۱) - پڑاخ - تڑاخ - تڑاخ (۲) - چالاک عورت۔

چٹاخا - چٹاکا - (ج - ٹاخا - ج - ٹاخا) - (مث) (۱) - (مث) (۱) - وہ آواز جو کڑی کے ٹوٹنے یا بلائیں لینے سے ظاہر ہو (۲) - (صفت) - شدت۔

کثرت (۳) - فاش - بدکار عورت۔

چٹان - (ج - ٹان) - (۱) - (مث) (۱) - بڑی سیل - بڑا اور چوڑا پتھر (۲) - پتھر سیل زمین۔

چٹانا - (ج - ٹا - نا) - (۱) - (مث) (۱) - بچے کو پہلی مرتبہ کوئی چیز کھلانا (۲) - (کنائیت) - رشوت دینا۔

چٹائی - (ج - ٹا - ای) - (۱) - (مث) (۱) - بھرا یا (صفت) - گھاس یا کھجور کے پتوں کا فرش۔

چٹ پٹ - (چٹ - پٹ) - (۱) - (مث) (۱) - متفرق خرچ - چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خرچ - متفرقات (۲) - کم قیمت - دوائیں جو تجربہ کار عورتیں بھاری اور بچوں کو دیتی ہیں۔

چٹ پٹ ہو جانا - (۱) - محاورہ) خرچ ہو جانا - صرف ہو جانا۔ چھوٹے چھوٹے کاموں میں لگ جانا۔

چٹ پٹا - (چٹ - پ - ٹا) - (۱) - (مث) (۱) - (صفت) - ننگ - سرچ اور کھٹائی پڑا ہوا مزیدار - چٹکیلا۔

چٹ پٹی - (چٹ - پ - ٹی) - (۱) - (مث) (۱) - چٹ پٹا کے تحت دیکھیے۔

چٹ پٹا - (چٹ - پٹ - ٹا) - (۱) - (مث) (۱) - ایک پودا جس کی بالیں کپڑوں میں چٹ جاتی ہیں - چرچٹا۔

چٹ چٹانا - (چٹ - ٹا - نا) - (۱) - (مث) (۱) - چٹنا۔

چٹخارا - (چٹ - خا - را) - (مث) (۱) - (مث) (۱) - وہ آواز جو زبان اور تالو سے کسی خوش ذائقہ چیز کے مزایا لینے سے نکلتی ہے۔

چٹخارے بھرنا - (۱) - محاورہ) کسی خوش ذائقہ چیز کا مزہ لینا۔ زبان چاٹنا۔ ہونٹ چاٹنا۔

چٹخارے کا - (۱) - (صفت) - چٹ پٹا - تیز ننگ سرچ کا۔

چٹخارے لینا - (۱) - محاورہ) لطف لینا - خوش ہونا - مزہ لینا۔

چٹخانا - (چٹ - خا - نا) - (۱) - (مث) (۱) - انگلیوں کی آواز پے درپے پے لگانا۔ (۲) - کسی چیز کو پتھر یا دیوار پر مار کر آواز نکالنا (۳) - علیحدہ کرنا - جدا کرنا۔

ترک کرنا - الگ کرنا (۴) - توڑنا - توڑنا۔

چٹ (چٹ) جانا - (ج - ٹاخ - ج - ٹاخ) - (مث) (۱) - (مث) (۱) - ان بن جانا - بڑھ جانا - ناراض ہو جانا - دوستی جاتی رہنا (۲) - جدا ہو جانا - جلا جانا۔

(۳) درز پڑ جانا - ٹوٹنا۔

چرخ کر (بات کرنا، بولنا، وہ-مص) گڑبگڑ بات کرنا۔ خفا ہو کر بولنا۔

چھٹنا - (ج-ٹ، نا، وہ-مص) کئی کاکھٹا (۷) چلا جانا۔ غائب ہو جانا۔

بھاگ جانا (۳) کالے دانے کو آگ پر ڈالنے کے بعد آواز کا پیدا ہونا (۴) سخت چیز پر گر کر اچھل کر دوڑ جا پڑنا (۵) گر کرنا۔ شش ہو جانا۔ بیچوٹ جانا۔

چھٹنا - (چٹ - ج - نا، ڈاز - ا - مذ) چاشا - تھڑ - دھول - دھبنا۔

چھٹنی - (چٹ - ج - نی، وہ - ا - مٹ) (۱) دروازے کے دھکنے کی چیز (۲) پرندے پر لڑنے کی خاطر جو چیز حال میں لگائی جاتی ہے۔

چھڑ پھڑ - (ج - ٹ - پ - ٹ) (۵) صفت متفرق۔

چھٹک - (ج - ٹ - ج - وہ - ا - مٹ) (۱) روشنی، جگ دمک، جھرک، آرائش

(۲) رنگ کی تیزی - تیز رنگ (۳) دھوپ کی تیزی (۴) پھرتی - جلدی تیزی (۵) ٹوٹنے کی آواز۔

چھٹک دار - (ا - صفت) روشن، جگ دار، چھکیلا۔

چھٹک سے - چھٹی سے۔ پھرتی سے۔

چھٹک منگ - (ا - مٹ) (۱) مزور، نخوت (۲) ناز، خزا، کر دفر -

نخرے کی چال۔

چھٹک منگ سے بیٹھنا - (ا - محاورہ) بی سوز کے بیٹھنا۔ ناز و انداز سے بیٹھنا۔

چھٹک منگ سے چلنا - (ا - محاورہ) اتر کر چلنا۔ ناز و انداز سے چلنا۔

چھٹکا - (چٹ - کا) (۱-۵) مذ (۱) چاٹ - مزہ - چسکا - وہ ذائقہ جس کا زبان کو مزہ پڑا ہو (۲) پیاس کی شدت (۳) تیز دھوپ۔

چھٹکا - (چٹ - کا) (۱-۵) مذ (۱) ٹھنکی بھر آنا۔ لپ بھر آنا۔ لپ بھر کے۔ (۲) چھٹکی۔

چھٹلے کا کھائیے - اگلے کا نہ کھائیے۔ مانگ کھانا بہتر ہے۔ اس کا اصل لینے سے جو احسان جتانے۔

چھٹکارا - (چٹ - کا - را) (۱-۵) مذ (۱) دیکھے چھٹارا (۲) چار پایوں کے ہنگارنے کی آواز (۳) وہ - دھبنا - داغ۔

چھٹکاری - (چٹ - کا - ری) (۱-۵) مٹ (۱) بیوں کو ٹانھنے کی آواز۔ ٹھٹکاری۔

چھٹکاری بھرنا - (ا - محاورہ) زبان کا مزہ - مزے مزے سے چٹ چٹ کرنا۔

چھٹکلا - (چٹ - ک - لا) (۱-۵) مذ (۱) مذاق - لطیفہ - دل چسپ فقرہ یا

چھوٹی کسی بات (۲) کم قیمت - چھوٹی سی پڑاؤ دوا (۳) عجیب

چیز - نادر چیز۔

چھٹکلا چھوڑنا - (ا - محاورہ) (۱) لطیفہ کہنا - کوئی ہنسی کی بات سنانا (۲) شوخ چھوڑنا - کوئی بات گھر کر کہنا (۳) شرارت آمیز چھوٹی سی کہانی سنانا۔

چھٹکنا - (ج - ٹ - ج - نا، وہ - مص) (۱) ٹوٹنا - پھٹنا - رنگ اڑنا - پھیکا پڑنا (۲) ناراض ہو کر بات کرنا - بگڑنا - خفا ہونا - جھجھلانا (۳) کالے دانے یا کوئلے کا آگ پر آواز دینا۔ (۴) انگلیوں کا بلائیں لینے وقت

یا موڑتے وقت اور خمیدہ کرتے وقت آواز دینا (۵) کلی کا کھلنا۔ دیکھنے پھٹنا۔

چھٹکنا - (ج - ٹ - ج - نا، وہ - مص) (۱) کاشنا - سانپ کا کاشنا (۲) پھول توڑنا۔ اوپر سے توڑ لینا۔ ترکاری ساگ وغیرہ کا توڑنا۔

چھٹکنی - (چٹ - ک - نی، وہ - ا - مٹ) چھٹنی - دروازے کو بند کرنے کی چیز۔

چھٹکی - (چٹ - کی) (۱-۵) مٹ (۱) انگلیوں سے پر لڑ کر گوشت ملنا - بگٹا (۲) ٹھنکی بھر آنا - ٹھنکی بھر چیز چھٹکنا (۳) گوگرد - گوٹے اور پچلے کو موڑ کر جو

کنکرے دار بناتے ہیں اسے چھٹکی کہتے ہیں (۴) بندوق کے پیالے کا سروش (۵) کنار دار گلبدن - نخری دار مشرد (۶) پاؤں کا ایک

زیور جو انگلیوں میں پہنا جاتا ہے (۷) کپڑا بچھانے کا طریقہ (۸) انگشت زکو انگشت وسطی کے ساتھ طاہر آواز نکالنا (۹) دوا کا سفوف

جو پتوں کو دیتے ہیں (۱۰) قبضہ گرفت (۱۱) کپڑے سینے کے بعد تاننا۔

چھٹکی بچھانے میں - (ا - تابع فعل) ذرا سی دیر میں - آن کی آن میں - فوراً۔

چھٹکی بچھانا - (ا - محاورہ) انگوٹھے کو بیچ کی انگلی سے طاہر آواز نکالنا۔

چھٹکی بھرنے - چھٹنا چھٹکی میں سما جائے۔ چھوڑا سا۔

چھٹکی بھر میں - (ا - تابع فعل) فوراً - لمحہ بھر میں۔

چھٹکی بھرنے - (ا - محاورہ) (۱) انگوٹھے اور انگلی سے جسم کا گوشت ملنا (۲)

چھتت ہوئی بات کہنا۔ طعنہ زنی کرنا۔ سر کو ٹپکیوں سے دباننا۔

چھٹکی پر اڑا دینا - (ا - محاورہ) دھوکا دینا۔ جیل دینا۔

چھٹکی چھٹکی - (ا - تابع فعل) چھوڑا چھوڑا۔

چھٹکی چھڑھانا - (ا - محاورہ) (۱) کئے کئے کسوف کی چھٹکی ڈال کر پرکھنا (۲) کئے کئے کو انگلی پر رکھ کر ادر انگلی سے اچھال کر اس کی آواز سے کھوٹنا

کھرا پرکھنا۔

چھٹکی کاٹنا - (ا - محاورہ) چھٹکی بھرنے یا لینا۔

چھٹکی لگانا - (ا - محاورہ) (۱) کپڑے کا انگلی یا چھٹکی سے پھاڑنا (۲) دوناتانا

پتے کے کنارے چھٹکی سے سروڑ کر تنکے سے جوڑنا (۳) چھٹکی کے ذریعے

سے جب سے بال نکال لینا (۴) کئے کئے کھوٹنا کھرا پرکھنا۔

چھٹکی مارے لہو ٹپکتا ہے - (ا - مثل) بدن میں اس قدر خون ہے کہ چھٹکی لو

تو خون جھکتا ہے۔ نہایت سرخ و سفید۔

چھٹکی میں - (ا - تابع فعل) فوراً - آنا ٹانا۔

چھٹکیاں لینا - (ا - محاورہ) (۱) چھتت ہوئی بات کہنا (۲) اُبھارنا - خیال پیدا

کرنا (۳) ایسا کام کرنا جس سے دوسروں کو ایذا ہو۔

چھٹکیوں پر اڑانا - (ا - محاورہ) (۱) حیرت خیال کرنا (۲) روپے کا پرکھنا۔

چھٹکیوں میں - (ا - تابع فعل) بہت جلد - آنا ٹانا۔

چھٹکیوں میں اڑانا - (ا - محاورہ) خاطر میں نہ لانا۔ ہنسی اڑانا۔ باتوں میں

اڑانا۔ ٹھٹھے میں اڑانا۔ ذلیل و خوار کرنا۔

چھٹکیوں میں کام کرنا - (ا - محاورہ) آنا ٹانا کام کرنا۔ بہت جلد کوئی کام کرنا۔

چھٹکیوں میں کام ہونا - (ا - محاورہ) بہت جلد کام کرنا۔

چھٹکیلا - (چٹ - کی - لا) (۵) صفت (۱) بھڑک دار - چمک دار - بھڑکیلا شوخ

رنگ (۲) خوش ذائقہ - چٹ پٹا - خوب رنگ مرعج پڑا ہوا۔

چھٹکی دھوپ - (چٹ - کی - لی - دھوپ) (۱-۵) مٹ (۱) گرم اور تیز دھوپ

چھٹلانی دھوپ۔

چٹلا - (جٹ - لا) - (د - ۱ - ۵) - مذ (۱) سونے چاندی کا گچھا سا جو عورتیں پیچھے پھرتی پر باندھتی ہیں (۲) مصنوعی بال جو عورتیں جوڑے میں لگاتی ہیں (۳) جوڑا۔

چٹنی - (جٹ - ٹی) - (د - ۱ - ۵) - (۱) چاٹنے کی چیز - چاٹنے کی دوا (۲) چٹ چٹی چیز جس میں دھنیا، انار دانہ، بودینہ، نمک - مرچ وغیرہ ڈال کر پیستے ہیں اور کھانے کے ساتھ کھاتے ہیں۔
چٹنی (کر دینا) کرنا - (۱) محاورہ (۱) کھا جانا، نکل جانا (۲) پیس ڈالنا - مار ڈالنا
چٹو - (جٹ - ٹو) - (د - ۱ - ۵) - مذ (۱) کڑی کا بالوں جس میں مصالحہ وغیرہ ڈال کر لہے کے دستے سے گوتے ہیں۔

چٹوا - (جٹ - وا) - (د - ۱ - ۵) - مذ (۱) بچوں کا ایک کھلونا۔
چٹوانا - (جٹ - وا) - (د - ۱ - ۵) - (۱) چاٹنے کا مستند (۲) تلوار کھر پانہ وغیرہ کو سامان دھروانا - دھار نکلوانا - ہاتھ دکھوانا۔

چٹور - (جٹور - اور - ٹو) - (د - ۱ - ۵) - صفت (۱) پیٹو - طامح - اڑاؤ - کھاؤ (۲) لذیذ کھانوں کا شوقین یا عادی (۳) روپیہ اڑا دینے والا (۴) آٹا - چاول رکھنے کا برتن۔

چٹوراپن - چٹور پن - چٹوروں کی سی عادت - کھانے کا شوق - زبان کا مزہ چٹوری - (جٹ - ری) - (د - ۱ - ۵) - صفت چٹوراکر تائینٹ - لذیذ چیزوں کی شوقین - کھانے میں فضول غریبی کرنے والی۔

چٹوری زبان دولت کا زبان - (۱) شش، چٹورا انسان کبھی دولت مند نہیں ہو سکتا۔

چٹھا - (چٹھ - ٹھا) - (د - ۱ - ۵) - وہ دھبے جو بدن پر خون کی خرابی کے سبب پڑ جاتے ہیں (۲) نفیس کھانا - لذیذ چیز مٹھائیاں -
چٹھے مٹھوں کا مزہ پڑنا - (۱) محاورہ (۱) زبان کا مزہ پڑنا - ڈونوں کی چاٹ لگن - کٹے کٹے سٹھے کا مزہ پڑنا۔

چٹھا - (چٹھ - ٹھا) - (د - ۱ - ۵) - (۱) ہزست تنخواہ - قبض الوصول - تنخواہ کی کتاب (۲) چندے یا روزانہ پھول کی کتاب (۳) تنخواہ یا اجرت جو روزانہ یا ہر ماہ تقسیم کی جائے (۴) مسودہ - کچا حساب (۵) کاغذ کا پلندہ۔

چٹھا باندھنا - (۱) محاورہ (۱) تنخواہ یا مزدوری تقسیم کرنا۔
چٹھا باندھنا - (۱) محاورہ (۱) ہزست - حساب مرتب کرنا - اسباب کی فرد بنانا (۲) اندازہ کرنا - تخمینہ کرنا یا لگانا۔
چٹھا تیار (مرتب) ہونا - (۱) محاورہ (۱) سزا کی عمل تیار ہونا۔

چٹھا بٹنا - تنخواہ یا مزدوری تقسیم ہونا۔
چٹھی - (چٹھ - ٹھی) - (د - ۱ - ۵) - (۱) خط - پتر - مراسلہ - رقعہ شفقہ - (۲) سرٹیکٹ سند - کارگزاری وینک نامی کا پرچہ (۳) چٹ (۴) لاٹری - قرعہ۔

چٹھی بیجنا - (صفت - مرکب) خط بیجنا۔
چٹھی پڑنا - (۱) محاورہ (۱) کسی چیز پر قرعہ پڑنا - لاٹری پڑنا۔
چٹھی ڈالنا - (۱) محاورہ (۱) خط کو ڈاک کے بس میں ڈالنا (۲) خط بیجنا (۳) قرعہ بازی یا لاٹری میں شریک ہونا۔

چٹھی راہداری - راہداری کا پروانہ - پاسپورٹ۔
چٹھی رسال - (۱) مذ (۱) ڈاکیا۔

چٹھی کرنا - (۱) محاورہ (۱) کسی کے نام کی ہنڈی کرنا - ہنڈی کھنا۔
چٹھی گیرنا - (۱) محاورہ (۱) چٹھی ڈالنا۔

چٹھی نویس - (۱) مذ (۱) خط لکھنے والا۔
چٹھی نہ پروانہ مار کھائیں ملک بیگانہ - (۱) شش (۱) حاکم کی بدانتظامی کے سبب بد معاش لوگ خواہ مخواہ ٹوٹتے پھرتے ہیں۔

چٹھی - (جٹ - ٹی) - (د - ۱ - ۵) - (۱) دھونس - ڈنڈ - ٹیکس - جرمانہ - تادان (۲) نقصان - ضرر - خسارہ - (۳) خرچ - صرف اٹھاؤ۔

چٹھی بھرنا - (۱) محاورہ (۱) تادان دینا - ڈنڈ جگھٹنا (۲) نقصان اٹھانا - ضرر اٹھانا - جرمانہ دینا۔

چٹھی دھرنا - (۱) محاورہ (۱) ڈنڈ ڈالنا - تادان بھرنا۔

چٹھی - (جٹ - ٹی) - (د - ۱ - ۵) - صفت (۱) چٹا کی تائینٹ - سفید چیز - گوری چیز - چٹیا - (جٹ - یا) - (د - ۱ - ۵) - (۱) چٹنی کی تعینر - لمبے بال جو ہندو سہر مندڑانے یا بال کوڑانے پر درمیان میں یا ایک طرف چھوڑ دیتے ہیں (۲) چٹا جوڑا۔
چٹیا سے جانا - (۱) محاورہ (۱) چٹنی میں سر جانا۔

چٹیا نا - (جٹ - یا) - (د - ۱ - ۵) - (۱) صفت (۱) چٹا نا - ڈنڈ زخمی کرنا - گھائل کرنا۔
چٹیا یا ہوا - (جٹ - یا) - (د - ۱ - ۵) - (۱) زخم رسیدہ - خستہ - زخمی - گھائل - مجروح۔

چٹے بٹے - (جٹ - ٹے) - (د - ۱ - ۵) - (۱) بچوں کے کھلونے - (۲) وہ چھوٹے چھوٹے گولے اور گولیاں جو مداری تانے میں دکھاتا ہے۔
چٹے بٹے لڑانا - (۱) مداری کا گولیوں کو غائب کرنا - شعبہ بازی دکھانا (۲) لگائی بھائی کرنا۔

چٹے بٹے ہونا - (۱) محاورہ (۱) ایک جیسا ہونا۔

چٹیل - (جٹ - یل) - (د - ۱ - ۵) - صفت (۱) وہ میدان جہاں کوئی سایہ دار درخت نہ ہو۔
صاف میدان کت دست - ہموار و یکساں میدان۔

چٹیل - (جٹ - یل) - (د - ۱ - ۵) - صفت (۱) مجروح - چوٹ کھایا ہوا۔

چٹیللا - (جٹ - ٹے) - (د - ۱ - ۵) - صفت (۱) چوٹ کھایا ہوا - صدمہ پہنچا ہوا۔
چٹیلنا - (جٹ - ٹیل) - (د - ۱ - ۵) - صفت (۱) زخمی کرنا۔

ج — ج

چٹی - (جٹ - ٹی) - (د - ۱ - ۵) - (۱) بچوں کی زبان میں مٹھی - چیزی سے بگڑا ہوا۔

چ — چ

چچا - (چ - چا) - (د - ۱ - ۵) - مذ (۱) باپ کا چھوٹا بھائی۔
چچا بننے کے (دکر کے) چھوڑنا - (۱) محاورہ (۱) سزا دے کر یا بدلے کر دم لینا۔
چچا بنانا - (۱) محاورہ (۱) ٹھیک کرنا - سزا دینا۔

چڈریا۔ (ج۔ در۔ یا، ڈار۔ ۱۔ مٹ) چادر کی تصنیف۔
 چڈنا۔ (چڈ۔ نا) (دہ۔ مٹ) جماع ہونا۔ زنا ہونا۔
 چڈوانا۔ (چڈ۔ وا۔ نا) (دہ۔ مٹ) کسی عورت کا جماع کرانا۔

چچا چور بھتیجا قاضی۔ (ا۔ مٹ) گھر کا معا طر ہے۔ حاکم لازم ایک ہی خانہ دار کے ہیں۔ سب یکساں ہیں۔
 چچا زاد بھائی۔ (ا۔ مذ) چچا بھائی۔ چچا کا بیٹا۔
 چچا زاد بہن۔ (۱۔ مٹ) چچیری بہن۔ چچا کی بیٹی۔
 چچڑی۔ (ج۔ ری) (دہ۔ ۱۔ مٹ) خون پینے والا کبوتر۔ جو اکثر گتے، بکری، گائے بھینس کے جسم سے پتلا رہتا ہے۔

چ — ڈ

چڈا۔ (چڈ۔ ڈا) (دہ۔ ۱۔ مذ) ران کے اڈر کا جوڑ۔ ران۔ جاگھ (۱۷) سوزہ آدمی۔
 چڈا گل تیرو۔ نقل مجلس۔ سوزہ۔ ماٹھو۔ پوتیا۔ احمق۔
 چڈو۔ (چڈ۔ دو) (دہ۔ ۱۔ مٹ) (۱) پھنسال۔ قنبہ۔ زائیدہ (۲) عورت کے بارے میں ایک گالی۔

چچڑی جوکر (چڈنا) لپٹنا۔ (۱۔ محاورہ) پوچھنا۔ چوڑنا۔ ہر وقت ساتھ لگے ہونا۔
 چچکارنا۔ (ج۔ کار۔ نا) (دہ۔ مٹ) چچکارنا۔ پیار کرنا۔
 چچکاری۔ (ج۔ کار۔ ری) (دہ۔ ۱۔ مٹ) پیار کی آواز۔
 چچوڑنا۔ (ج۔ چوڑ۔ نا) (دہ۔ مٹ) (۱) پوڑنا (۲) بچے کا چھاتیوں کو پوڑنا۔ (۳) گوشت یا ہڈی کو پوڑنا۔

چڈھا۔ (چڈ۔ ڈھا) (دہ۔ ۱۔ مذ) دیکھے چڈھا مل۔
 چڈھی۔ (چڈ۔ ڈھی) (دہ۔ ۱۔ مٹ) پیٹھ کی سواری۔
 چڈھی ٹوڑنا۔ (۱۔ محاورہ) پشت کی سواری لینا۔ پشت پر پڑھنا۔
 چڈھی پڑھانا۔ (۱۔ محاورہ) پیٹھ پر لینا۔ پیٹھ کی سواری دینا۔
 چڈھی پڑھنا۔ (۱۔ محاورہ) پشت کی سواری لینا۔
 چڈھی دینا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) پیٹھ کی سواری دینا (۲) بازاری (اعظام کرانا۔ لواطت کرانا۔
 چڈھی لینا۔ (۱۔ محاورہ) پیٹھ کی سواری لینا۔

چچی۔ (ج۔ چی) (دہ۔ ۱۔ مٹ) چچا کی بیوی۔
 چچکیا۔ (ج۔ یا) (دہ۔ صفت) چچا سے منسوب۔
 چچیا ساس۔ (۱۔ مٹ) خاندان یا بیوی کا چچی۔
 چچیا کسمر۔ (۱۔ مذ) خاندان یا بیوی کا چچا۔
 چچیرا۔ (ج۔ چے۔ را) (دہ۔ صفت) (۱) چچا کا سہچا کے تعلق سے (۲) چچا زاد بھائی۔

چچیری۔ (ج۔ پی۔ ری) (دہ۔ صفت) چچا زاد بہن۔
 چچیرے۔ (ج۔ پے۔ رے) (دہ۔ صفت) وہ رشتے دار جو چچا کی اولاد ہوں۔
 چچینڈا۔ (ج۔ پین۔ ڈا) (دہ۔ ۱۔ مذ) گڑھی کی شکل کی ایک ترکاری۔

چ — ر

چ — خ

چر۔ (دہ۔ ۱۔ مٹ) کسی چیز کے پھٹنے کی آواز۔ جھڑ۔
 چرمر۔ چلنے میں جوڑنے کی آواز۔
 چر۔ (دہ۔ ۱۔ مٹ) سوکھے ہوئے پتوں کے ٹوٹنے یا ٹرنے کی اچانک آواز۔
 چرمر۔ چلنے ہوئے چادل جن کو دبا کر چھٹا کر دیا جائے۔
 چرمر ہونا۔ (۱۔ محاورہ) سوکھی ہوئی چیز کا ٹوٹ پھوٹ کر خردا ہونا ہو جانا۔ مڑھا کر چھوٹا سا ہو جانا۔ بھریاں پڑ جانا۔
 چرا۔ (ج۔ را) (دہ۔ ۱۔ مذ) تابع فعل کیوں۔ کس لیے۔ کس طرح۔
 چرا کرارے گند عاقل کے باز آید کیلئے شامی۔ (دہ۔ مٹ) دانا آدمی کو ایسا کام کرنا چاہیے جس سے چھٹا ناز پڑے۔
 چراٹا۔ (چر۔ وا۔ ٹا) (دہ۔ ۱۔ مذ) کاغذ یا کپڑا پھٹنے کی آواز۔
 چراغ۔ (ج۔ راغ) (دہ۔ ۱۔ مذ) (۱) وہ برتن جس میں تیل اور جتی ڈال کر روشن کریں (۲) دیا۔ لمپ۔ شمع۔ جتی (۳) پیشا۔ خزانہ۔ لڑکا (۴) گھوڑے کا پھیلے پاؤں پر کھڑا ہونا (۵) رہنا۔
 چراغ آسمان۔ (دہ۔ مذ) سورج۔ آفتاب۔
 چراغ آف کر دینا۔ (۱۔ محاورہ) دیا کھینچ دینا۔
 چراغ آگسنا۔ (۱۔ محاورہ) چراغ کی جتی اچھتی کرنا۔
 چراغ جتی کا وقت۔ (۱۔ مذ) شام کا وقت۔

چخ۔ (دہ۔ ۱۔ مٹ) (۱) زبانی جھگڑا۔ تکرار (۲) دشمنی۔ مخالفت۔
 چخ۔ (۱) جھک جھک۔ لفظی تکرار (۲) لڑائی میں ٹیروں کے بولنے کی آواز۔
 چچی۔ (۱) دو گولیاں جن کو فقیر بجاتے ہیں (۲) دو گولیاں یا دو پتھر جسے سینہ زنی کے وقت ماتھوں میں لے کر بجاتے ہیں (۳) ایک قسم کا تخم۔
 چچا ج۔ (ج۔ چا۔ ج) (دہ۔ ۱۔ مٹ) تلواروں کی جھنکار۔ پتھا جتی۔
 چچوانا۔ (ج۔ وا۔ نا) (دہ۔ مٹ) چھیننا کا مستند۔
 چچے۔ (ج۔ چے۔ نے) (دہ۔ ۱۔ مذ) گھر، نذرت، چل دو، ہو۔ رے بہت۔ باتیں دینا۔
 چچینا۔ (ج۔ یا) (دہ۔ مٹ) تکراری۔ جیتی۔ جھگڑالو۔ جتی۔

چ — د

چڈاس۔ (ج۔ داس) (دہ۔ ۱۔ مٹ) چڈانے کی خواہش۔ شہوت۔ عورت کی خواہش جماع۔
 چڈانا۔ (ج۔ دا۔ نا) (دہ۔ مٹ) عورت کا جماع کرانا۔
 چڈتر۔ (چڈ۔ در) (دہ۔ ۱۔ مٹ) چادر کا مختلف۔

چراغ میں جتی پڑتی۔ لادو میری سچ پڑھی۔ (اش) شام ہوتی ہی
سونے کے لیے بے تاب ہونا۔
چراغ نہیڑ جانا۔ (امجاد) چراغ بجھ جانا۔

چراغ غا۔ (بج۔ را۔ غا) (ار۔ ا۔ مذ) نذرانہ۔ پیسہ (آزادوں اور فقروں
کی اصطلاح)

چراغ غا۔ (بج۔ ما۔ غا) (ف۔ ا۔ مذ) بہت روشنی۔ چراغوں کا اکٹھا جلنا۔
بہت سے چراغ جلنا۔

چراغی۔ (بج۔ را۔ غی) (ف۔ ا۔ مٹ) (ا) وہ نقدی جو کسی بزرگ کے مزار
پر روشنی کے لیے دی جاتی ہے (ب) نذرانہ۔ بھینٹ۔ رشوت۔

چراغی پڑھانا۔ (امجاد) (ا) بھینٹ پڑھانا۔ فاتحہ دلاتے وقت کچھ
نقدی چراغ کے نیچے رکھ دینا (ب) رشوت دینا۔

چراغی لینا۔ (امجاد) (ا) نذر لینا (ب) رشوت لینا۔

چراگاہ۔ چراگاہ۔ (بج۔ را۔ گاہ) (بج۔ را۔ گ) (ف۔ ا۔ مٹ) وہ جگہ جہاں
جاوڑوں کو چرایا جاتا ہے۔ گھاس کا میدان۔ سبزہ زار۔

چڑالینا۔ چڑانا۔ (بج۔ را۔ لے۔ نا۔ بچ۔ را۔ نا) (وہ مصل) (ا) چوری کرنا۔
اڑالینا (ب) موہ لینا (ب) آنکھ پڑانا۔ اغراض کرنا۔ توہ نہ کرنا۔

چڑانا۔ (بج۔ را۔ نا) (وہ مصل) (ا) جاوڑوں کو جنگل میں لے جا کر گھاس کھلانا
(ب) زیرِ حکم رکھنا (ب) دھوکا دینا۔ فریب دینا۔ بے وقوف بنانا۔

چڑانا۔ (بج۔ را۔ نا) (وہ مصل) (ا) زخم کا پھینسا۔ خشک زخم کا درد کرنا۔ دوا
خشک ہو جانے سے زخم کا درد کرنا۔

چڑانا۔ (بج۔ را۔ نا) (وہ مصل) (ا) کڑی کٹھانا (ب) چاقو سے پھوٹے دینہ
کو پیرا دلانا۔

چڑاند۔ چڑاند۔ (بج۔ ما۔ اند) (بج۔ ما۔ اند) (وہ مٹ) (ب) چڑے، بال یا
بڈی دینہ کے جلنے کی بدبو۔

چڑاندہ۔ چڑاندہ۔ (بج۔ را۔ ن۔ وہ) (بج۔ را۔ ن۔ وہ) (وہ مٹ) (وہ مٹ) (ا)
بدبودار (ب) بد مزاج۔

چڑانتا۔ (بج۔ را۔ ا۔ اے۔ تا) (وہ مٹ) (ا) ایک قسم کی کڑوی لکڑیاں جو
مصغی خون ہوتی ہیں۔

چڑاؤ۔ (بج۔ را۔ او) (وہ مٹ) (ا) مویشیوں کو گھاس کھانے کے لیے
بھیجا (ب) چرانے کی اجرت۔ چروانی۔

چڑاؤ۔ (بج۔ را۔ او) (وہ مٹ) (ا) درز۔ خشک۔ چیر۔

چڑائی۔ (بج۔ را۔ ای) (وہ مٹ) (ا) مویشی چرانے کے لیے جنگل
بھینسا یا لے جانا (ب) چراگاہ (ب) محصول یا مزدوری جو چرائی کے
لیے دی جاتی ہے۔

چڑائی۔ (بج۔ را۔ ای) (وہ مٹ) (ا) کڑی لکڑیاں (ب) کڑی کٹھانا
کی مزدوری۔

چڑب۔ (ف۔ صفت) (ا) فریب۔ موٹا۔ لیم۔ لیم۔ جسم۔ جس کے جسم میں بہت
چربی ہو (ب) بیکنا۔ مٹرنی (ب) غالب۔ زیادہ۔ تیز۔
چڑب دست۔ (ف۔ صفت) (ا) چالاک۔ ہوشیار (ب) دست کار۔

چراغ جتی ہونا۔ (امجاد) (وہ مٹ) دیا جلنا۔ روشن کاساماں ہونا۔
چراغ بجھانا۔ چراغ بڑھانا۔ (امجاد) چراغ گل کرنا۔ چراغ ٹھنڈا کرنا۔
چراغ بڑھا ہونا۔ (امجاد) چراغ بجھ جانا۔

چراغ یا ہونا۔ (ا۔ مذ) (ا) گھوڑے کا لٹ ہونا (ب) ہنسا ہونا۔ ناراض ہونا۔
چراغ تربت (گور مزار)۔ (ا۔ مذ) چراغ جو قبر پر بجایا جائے۔

چراغ تلے اندھیرا۔ (اش) منصف حاکم کے قریب ظلم ہونا۔ میزوں کو
فائدہ پہنچانا اور اپنوں کو محروم رکھنا۔

چراغ تہ (واماں) (وامن)۔ (ا۔ مذ) (ا) چراغ کو ہوا سے یا دیے ہی بجھنے
سے بچانے کے لیے دامن کے نیچے کر لینا (ب) محفوظ۔

چراغ ٹٹھانا۔ (امجاد) چراغ کا تھوڑی روشنی دینا۔ چراغ کا بجھنے
کے قریب ہونا۔

چراغ ٹھنڈا کرنا۔ (امجاد) چراغ بجھانا۔
چراغ جلانا۔ (امجاد) چراغ روشن کرنا۔

چراغ جیلے۔ (ا۔ مذ) سرشام۔ بھٹ پڑنے کے وقت۔
چراغ چرخ چارم۔ (ف۔ مذ) آفتاب۔ حضرت عیسیٰ۔

چراغ چشم۔ (ا۔ مذ) بینا۔
چراغ خاموش کرنا۔ (امجاد) چراغ بجھانا۔

چراغ دان۔ (امجاد) شمع دان۔ کڑی کا ایک پارہ جس پر چراغ رکھ کر جلایا جاتا ہے
چراغ (دکھانا) دکھلانا۔ (امجاد) رستے میں روشنی دکھانا۔ چراغ
بمبار لے کر جانا۔

چراغ سحر۔ (بج۔ را۔ سحر) صبح کا تارا۔ ناپائیدار۔ زوال کے قریب۔
چراغ سحری۔ (ا۔ مذ) (ا) چراغ جو صبح کو بجھنے کے قریب ہو (ب) قریب
مرگ۔ چند دن کا بہانہ۔

چراغ سدھا رانا۔ (امجاد) دیا بجھ جانا۔
چراغ سے پھول چھڑنا۔ (امجاد) چراغ سے جلتا ہوا تیل ٹپکنا (فوشی
کا شگون لیا جاتا ہے)۔

چراغ سے چراغ جلتا ہے۔ (ا۔ مٹ) ایک دوسرے سے کسب
فیض کیا جاتا ہے۔

چراغ عالم افروز۔ (ف۔ صفت) دیا جو ساری دنیا کو روشن کرے۔
مراد سورج۔

چراغ کا بہنسا۔ (امجاد) چراغ کی ٹو سے بچگاریاں نکلنا۔ چراغ سے
جیلے تیل کا ٹپکنا۔

چراغ کو لاکھ دینا۔ (امجاد) چراغ بجھانا۔
چراغ گل پکڑی غائب۔ (اش) آنکھ بچی اور مال اڑایا۔ (مذاق
کے طور پر)۔

چراغ گل کرنا۔ (امجاد) چراغ بجھانا (ب) گھر تباہ کرنا۔
چراغ گل ہونا۔ (امجاد) چراغ بجھنا۔ گھر تباہ ہونا۔

چراغ لے کر ڈھونڈنا۔ بہت تلاش کرنا۔ جستجو کرنا۔
چراغ میں جتی آنکھ پڑی۔ (اش) شام ہوتے ہی سونے کی تیاری۔
چراغ میں جتی پڑنا۔ (امجاد) چراغ جلنا۔ شام ہونا۔

کاری (۳) چوڑ - گھڑا۔
 چوڑ زبان۔ (ف - صفت) (۱) پکنی چوڑی باتیں کرنے والا۔ تیز زبانی۔
 (۲) شیریں زبان (۳) خوشامدی۔
 چوڑب زبانی۔ (ف - امت) چاہلوسی - خوشامدی - شیریں کلامی۔
 چوڑب غذا۔ (ف - صفت) وہ غذا جس میں چربی یا مٹی زیادہ ہو۔
 چوڑب کرنا۔ (م - مرکب) لکھی یا تیل لگانا۔ لکھی میں میوننا - نرم کرنا۔
 چکنا کرنا۔ چکنا۔
 چوڑب گوشت۔ (ا - صفت) جس گوشت پر چربی زیادہ ہو۔
 چوڑب (ہو جانا) ہونا۔ (۱ - محاورہ) (۱) ہوشیار ہو جانا (۲) بیٹھ جانا تیز ہو جانا۔
 چوڑبانا۔ (چوڑ - بان) (۱) مہم - چوڑب کرنا۔
 چوڑبانگ۔ چوڑبانگ - (چوڑ - بانگ) (۱) صفت (۲) چالاک۔ چار۔
 ہوشیار - لکٹ - زبان - دراز۔
 چوڑبانگ دیدہ۔ نڈر - شونچ - ہوشیار۔ دیدہ دلیر۔
 چوڑبنا۔ (چوڑ - نا) (۱) ڈاک - مہم - (۲) تیز ہو جانا (۳) چالاک ہونا۔ ہوشیار ہونا۔ در مقابل ہونا۔ کاری گرو ہونا (۴) جیت لینا۔ غلبہ پالینا۔
 چوڑبہ۔ (چوڑ - بہ) (ف - صفت) (۱) مدھی کاغذ - موسم جابر (۲) خاکر۔
 کاغذ یا پوست آہو کو چوڑب کر کے کسی نقش یا تصویر پر رکھ کر اس کی آہو ہونقل آتارنا۔
 چوڑب آتارنا۔ (۱ - محاورہ) (۱) خاکر آتارنا۔ آہو ہونقل کرنا یا آتارنا۔ (۲) انداز آڈانا۔ ڈھنگ بکھانا۔
 چوڑبی۔ (چوڑ - بی) (ف - صفت) (۱) وہ سفید چکنا مادہ جو بدن میں گوشت پر جمع جاتا ہے (۲) چکنا بی - روشن۔
 چوڑبی آتارنا۔ (۱ - محاورہ) گوشت سے چوڑبی علیحدہ کرنا۔
 چوڑبی اترنا۔ (۱ - محاورہ) ڈبلا ہو جانا۔
 چوڑبی پھانی آنکھن میں تو ناچن لالگی آنکھن میں۔ (۱ - ش) بیٹ بھر گیا تو کینے پن پر اتر آئی۔
 چوڑبی کی باتیں۔ (۱ - صفت) پکنی چوڑی باتیں کرنا۔
 چوڑبیانا۔ (چوڑ - ب - یا - نا) (۱) ڈاک - مہم - فریب ہونا۔ موٹا ہونا۔
 چوڑپرا۔ (چوڑ - پ - را) (۱) صفت (۲) تیز - تند - گرم - مصالحو دار - مرچوں والا - چٹ پٹا۔
 چوڑپرا نا۔ (چوڑ - پ - نا) (۱) صفت (۲) تیزی کرنا۔ مرچیں لگنا۔
 چوڑپرا ہٹ۔ (چوڑ - پ - ہٹ) (۱) صفت (۲) تندی - تیزی مرچوں کا لگنا (۳) سوزش - جلن۔
 چوڑپوز۔ (چوڑ - پوز) (ف - صفت) کینے - رذیل - سفار - پھر - بے ہودہ۔
 چوڑتر۔ چلتر۔ (چوڑ - تر) (۱) لبت - ش - دس - (۲) چل چلا بازی۔ عورتوں کا مکڑ یا فریب۔
 چوڑٹ۔ (۱) ڈنگ - (۲) ہنگام۔
 چوڑجانا۔ (چوڑ - جا - نا) (۱) ڈاک - مہم - (۲) کھانا (۳) رگ رگ میں سرایت کر جانا۔

چرچ۔ (Church) (۱) ڈنگ - (۲) ڈنگ۔ کلیسا۔ عیسائیوں کی عبادت گاہ۔
 چرچ آف انگلینڈ۔ برطانیہ کا کلیسا جو پوپ کے اقتدار کا منکر ہے۔
 چرچا۔ (چر - چا) (۱) ڈنگ - (۲) تذکرہ - شہرت (۳) گنگو - صلاح - مشورہ (۴) بحث - مباحثہ۔
 چرچا پھیلنا۔ (۱ - محاورہ) کسی بات کا مشہور ہونا۔
 چرچا کرنا۔ (م - مرکب) ذکر کرنا۔
 چرچا ہونا۔ (۱ - محاورہ) (۱) آواز اڈانا۔ شہرت ہونا (۲) برائی کے ساتھ ذکر ہونا (۳) کسی عملی کام کی طرف توجہ ہونا۔
 چرچے میں رہنا۔ مشغول رہنا۔ لگنا تا صرف رہنا۔ کسی کام میں لگے رہنا۔
 چرچینا۔ (چر - چ - لی - نا) (۱) ڈنگ - (۲) بھنا ہوا غلظت جو مزدور دکھاتے ہیں۔
 چرچینا۔ (چر - چ - پٹ - ٹا) (۱) ڈنگ - (۲) گھاس جس میں جو کی طرح باریں لگتی ہیں اور غزبان کی غذا بنتی ہے اس کی باریں اکثر چھٹ جاتی ہیں۔
 چرچوڑ۔ (۱ - صفت) (۱) کلوی ٹوٹنے کی آواز (۲) تخی ہوتی کی آواز (۳) بک بک - بکواس - گپ - گپ - شپ۔
 چوڑچوڑ۔ (۱ - صفت) (۱) مٹ - (۲) تیز کی آواز۔
 چوڑچوڑا۔ (چوڑ - چوڑ - نا) (۱) صفت (۲) بہت باتیں کرنے والا (۳) تیز۔
 چوڑچوڑانا۔ (چوڑ - چوڑ - نا) (۱) صفت (۲) کلوی کا ٹوٹنا۔ چٹکانا (۳) پٹکانا۔
 چوڑچوڑا۔ (چوڑ - چوڑ - نا) (۱) صفت (۲) چوڑچوڑنے کا فعل آواز۔
 چوڑچوڑنا۔ (چوڑ - چوڑ - نا) (۱) صفت (۲) بدھن پر خوشبو یا آٹھنا (۳) چوڑچوڑنا۔
 چوڑچوڑنا۔ (چوڑ - چوڑ - نا) (۱) صفت (۲) بھننا سوچنا۔ خیال کرنا۔ دھیان کرنا۔ (۳) اعتنا سے پڑھنا۔
 چوڑچوڑ۔ (ف - صفت) (۱) ڈنگ (۲) کنوئیں یا پن پکی کا پینا (۳) کھار کا چاک (۴) خراہ (۵) آسمان (۶) گردش۔ چکر (۷) گردش کرنے والی چیز (۸) وہ آگ جس پر ظرف کو پڑھا کر صاف کرتے ہیں (۹) وہ کلوی جس پر آؤنی کپڑے کو چڑھاتے ہیں (۱۰) ایک سفید رنگ کا باز (۱۱) گڑبگڑ (۱۲) چھٹی ہوئی گان۔
 چوڑخ انداز۔ (ف - صفت) بزرگان چلانے والا۔
 چوڑخ بے پیر۔ (ف - صفت) (۱) ڈنگ اپنی بد نصیبی کا باعث آسمان کو خیال کرتے ہیں اس لیے بے پیر کا لفظ تخریراً اصناف ہے۔
 چوڑخ پلوجا۔ (۱) جب سورج بروج حمل میں داخل ہوتا ہے تو نبی ذات کے ہندو گناہوں کی معافی کے لیے ایک دم ادا کرتے ہیں (۲) ایک تماش۔
 چوڑخ پیر۔ آسمان۔ فلک۔ بوڑھا آسمان۔
 چوڑخ پڑھانا۔ (۱ - محاورہ) (۱) سان پڑھانا۔ سان پر رکھنا (۲) دعائے کے برتن کو خراہ پڑھانا۔
 چوڑخ چڑھنا۔ (۱ - محاورہ) خراہ پڑھنا۔
 چوڑخ چلنا۔ (۱ - محاورہ) کوزاں چلنا۔ کنوئیں سے پانی نکلنا۔
 چوڑخ چول۔ چوڑخ چول۔ (۱ - صوت) پیسے کی آواز۔ آہستہ آواز۔ جیمی آواز۔
 چوڑخ خیالی۔ سینے کی سین۔
 چوڑخ دوار۔ پھرتے والا آسمان۔

چرخ دولابی۔ دف۔ مذ۔ آسمان۔
 چرخ زریں۔ ذ۔ مذ۔ چو تھا آسمان جہاں روایت ہے کہ حضرت عیسیٰ کا قیام
 ہے اور جس پر سورج ہے۔
 چرخ زن۔ (۱۔ صفت) گھومنے والا (۲) وہ آدمی جو چرخ چلائے۔
 چرخ سے مہتاب توڑ لانا۔ (۱۔ محاورہ) ہنایت چالاکی سے کام کرنا۔
 چرخ فلک۔ (۱۔ مذ) عرش۔
 چرخ کبود۔ دف۔ مذ۔ نیلا آسمان۔
 چرخ کھانا۔ (۱) چکر کھانا۔ گردش کرنا۔ پھرنا (۲) دھات کا پھل جانا۔ تاؤ
 کھانا (۳) پارے کی طرح نظر سے بنانا (۴) آگ میں سونے چاندی کو
 ڈال کر استمان کرنا۔
 چرخ مارنا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) چکر کھانا۔ پھرنا (۲) حرکت کرنا (۳) ناپنا۔
 چرخ میں آنا۔ (۱۔ محاورہ) پھرنا۔ گردش کرنا۔
 چرخ ہنڈولا۔ ایک آگ جس پر بچوں کو بٹھا کر چکر دیتے ہیں۔
 چرخاب۔ (پڑ۔ خاب) (۱۔ صفت) ایک قسم کی بہن پگ جس سے بجلی پیدا
 کی جاتی ہے۔ ٹربائن۔ (Turbine)
 چرخل۔ (پڑ۔ خل) (۱۔ صفت) بڑھا۔ کھوٹ۔
 چرخ۔ (پڑ۔ خ) (۱۔ مذ) صفت (۲) سوت کا تے کا آلا چکر کھانے والا
 آگ (۳) ایک قسم کا ناچ (۴) پڑانی چیز (۵) کمزور۔ ڈبلا۔ لاغر۔
 بوڑھا۔ بوڑھی۔
 چرخ پوئی۔ (۱) چرخ اور اس کے کاتے کا سامان (۲) عورت کا ہنر۔
 چرخ پوئی کرنا۔ (۱۔ محاورہ) چرخ کات کرنا۔ چرخ کاتنا۔
 چرخ سنا پھرنا۔ (۱۔ محاورہ) بہت پھرنا۔ آوارہ پھرنا۔
 چرخ کاتنا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) چرخے پر تانا کھانا (۲) چرخ چلانے کا کام کرنا۔
 چرخ ہو جانا۔ ضعیف اور فرقت ہو جانا۔ پیر و خیف ہو جانا۔
 چرخے کی مال (ماہل) (۱) ڈورا جو چرخے پر چلتا ہے (۲) در بدر پھرنے
 والا۔ خست حال (۳) ڈبلا۔ کمزور۔ لاغر۔
 چرخنی۔ (پڑ۔ نی) (۱۔ صفت) (۲) روٹی کو بنوں سے صاف کرنے کا
 آگ چکر کھانے والی چیز (۳) ایک قسم کی آتش بازی (۴) چاک۔ پانی
 کھینے کا پتیا (۵) بھرتی (۶) دور یا بادل پینے کا اوزار (۷) ایک
 چھوٹا پرند۔
 چرخ۔ دف۔ مذ۔ ایک صحرائی پرندہ۔
 چرخس۔ (پڑ۔ رس) (۱۔ مذ) (۲) چرخے کا بڑا ڈول (۳) ایک نشہ جو
 ہنگ کے پتوں اور ایون سے تیار کیا جاتا ہے اسے تباہ کی طرح
 پینے ہیں۔
 چرخس۔ (۱۔ صفت) (۱) شکن۔ بٹ۔ بھڑی۔ سلوٹ (۲) رشک۔
 چرخسا۔ (پڑ۔ سا) (۱۔ مذ) (۲) پیل یا بھینے کا چرخ (۳) بوڑھا چرخ۔ ادھوڑی۔
 چرخسا بھر زمین۔ (۱۔ صفت) چھوڑی سی زمین۔ اتنی زمین جس پر بیل کا چرخا لگے۔
 چرخسی۔ (پڑ۔ سی) (۱۔ مذ) چرخس کا نشہ کرنے والا۔
 چرخسی بارکس کے دم لگایا جھکے۔ (۱۔ صفت) مطلب حاصل ہوا اور
 آگ پھرتی۔

چرخیا۔ (پڑ۔ رس) (یا) (۱۔ صفت) چرخس پینے والا۔
 چرخ۔ دف۔ (۱۔ مذ) (۲) گلابوڑ (گلابوڑ) یا قندوا (۳) شکریے یا بازاری
 مانند ایک شکاری پرندہ۔
 چرخم چرخم کرنا۔ (پڑ۔ خم۔ چرخ۔ خم۔ کر۔ نا) (۱۔ صفت) کھس پھس کرنا۔ بگ
 بگ کرنا۔ جمع جمع کرنا۔
 چرخہ۔ (پڑ۔ خ) (۱۔ مذ) کھٹے پر سینکا ہوا مرغ مسلم۔
 چرخیں۔ چرخینہ۔ (پڑ۔ خین۔ چرخ۔ خنی۔ خ) (۱۔ صفت) (۲) کینہ۔ سطر۔ رزبل
 صغ (۳) بیٹھا (۴) بد معاش۔ بد چلن۔
 چرک۔ (۱۔ مذ) (۲) پاناز۔ گوہ۔ غلاقت (۳) پیپ (۴) زنگ۔
 چرک آلود۔ (۱۔ صفت) غلاقت سے بھرا ہوا۔
 چرک دھالیں میں رہنا۔ (۱۔ محاورہ) ہمیشہ کسی نہ کسی مرض میں مبتلا رہنا۔
 چرکا۔ (پڑ۔ کا) (۱۔ مذ) (۲) ہلکا سا زخم (۳) نقصان (۴) گرم لوہے
 سے داغ دینا۔
 چرکا (دینا) لگانا۔ (۱۔ محاورہ) (۲) زخم لگانا۔ ہلکا سا (۳) داغ دینا (۴)
 نقصان پہنچانا (۵) دھوکا دینا۔ بھل دینا۔
 چرکا کھانا۔ (۱۔ محاورہ) (۲) زخم کھانا (۳) نقصان اٹھانا۔
 چرکنا۔ (پڑ۔ ک۔ ٹنا) (۱۔ مذ) (۲) چارہ کھانے والا۔ باغی کا چارہ لانے
 والا۔ باغی کا گھسیارہ۔ فیضانوں کا پیش خدمت (۳) کینہ۔ رزبل۔
 چرکنا۔ (پڑ۔ رگ۔ نا) (۱) فارسی سے ہند۔ صغ (۲) قوڑا سا لگانا۔
 چرکنا۔ (پڑ۔ رگ۔ نا) (۱۔ صفت) (۲) چھانا۔ پرندوں کا بولنا۔ باتیں کرنا۔
 (۳) انسان کے بولنے کے لیے سحر کرتا بھتے ہیں۔ بگ شپ لگانا۔
 چرکین۔ (پڑ۔ کین) (۱۔ صفت) (۲) میلہ۔ گندہ۔ غلیظ۔
 چرخم۔ (۱۔ مذ) (۲) چرخہ۔ کھال۔ پوست۔ ادھوڑی۔
 چرخمانا۔ (پڑ۔ م۔ را۔ نا) (۱۔ صفت) (۲) چلن ہونا۔ چس مارنا۔ چٹکنا۔
 چرخماہٹ۔ (پڑ۔ م۔ را۔ ہٹ) (۱۔ صفت) (۲) چلن۔ سوزش۔ تپک۔
 چرخمی۔ (پڑ۔ می) (۱۔ صفت) (۲) چرخے کا (۳) چرخے کا بنا ہوا۔
 چرخینہ۔ (پڑ۔ می۔ خ) (۱۔ صفت) (۲) کھال کا بنا ہوا۔ چرخمی۔
 چرخن۔ (۱۔ مذ) (۲) پاؤں۔ قدم (۳) پاپوش (۴) ستون۔ تخم (۵) فرقہ۔
 (۶) چلن۔ طریقہ۔ عمل۔
 چرخ بردار۔ (۱۔ صفت) (۲) امیروں کی چڑتیاں اٹھانے والا (۳) نیاز مند۔
 چرخ سیوا۔ (۱۔ صفت) خدمت۔ ملازمت۔
 چرخ سیوک۔ (۱۔ صفت) خدمت گزار۔
 چرخ لینا۔ (۱۔ محاورہ) (۲) پاؤں چھونا (۳) پاؤں پڑنا۔
 چرخوں سے لگانا۔ (۱۔ محاورہ) خدمت میں رہنا۔ خفاقت میں رہنا۔
 چرخوں میں ہونا۔ (۱۔ محاورہ) خدمت میں رہنا۔
 چرخنا۔ (پڑ۔ نا) (۱۔ صفت) (۲) جانوروں کا گھاس کھانا۔ چلنا۔ پرورش کرنا (۳)
 اُدچا پاجامہ جو نوکروں یا ملازموں کو پہنانے میں لگتا۔
 چرخنا۔ (پڑ۔ نا) (۱۔ صفت) (۲) دو گھڑے ہو جانا (۳) چرخے چھٹ جانا۔
 چرخنا۔ (پڑ۔ نا) (۱۔ صفت) (۲) چوری ہونا۔
 چرخند۔ چرخندہ۔ (پڑ۔ رند) (۱۔ صفت) (۲) چرخنے والا جانور۔

موشی - پر پیار - بیخ دوم نیز بکسر دوم -
 چرندم - خوردندم - (۵۷-۵۸) دن - دم - مخ - دن - دم - (۱-۲) مذ (کھانے
 پینے کا مشغلہ -
 چرندم خوردندم کر جانا - (۱-۲) محاورہ (کھا جانا - خورد خورد کرنا -
 پرنی - (پرنی - (۱-۲) مٹ (۱-۲) وہ برتن جس میں جانوروں کو چارہ دیا
 جاتا ہے -
 پرنے - (پرنے - (۱-۲) مذ (۱) پتوں کے معدے میں جو کڑے
 پیدا ہو جاتے ہیں -
 پرنے لگنا - (۱) متعدی میں کڑوں کا رنگینا جس سے پتوں کو تکلیف ہوتی
 ہے (۲) بڑلگنا - ناگوار گزنا -
 پردا - (پردا - (۱-۲) مذ (۱) بڑی ہنٹیا - دیکھ - دیگ -
 پردانا - (پردا - (۱) نا (میشیوں کو چرائی پر بھیجنا -
 پردانا - (پردا - (۱) نا (۱) معص (۱) گڑیاں دو ٹکڑے کر دانا -
 پردانا - (پردا - (۱) نا (۱) معص (۱) چوری کرنا -
 پردا - (پردا - (۱) نا (۱) مذ (۱) موشی پرانے والا -
 پرداہی - (پردا - (۱) ہی (۱) مٹ (۱) پردا کی تانیٹ -
 پردانی - (پردا - (۱) ای (۱) مٹ (۱) موشی پرانے کی اجرت -
 پردانی - (پردا - (۱) ای (۱) مٹ (۱) مٹ (۱) کڑی پرانے کی مزدوری -
 پردوچی - (پردا - (۱) چی (۱) مذ (۱) ایک درخت اور اس کا پھل -
 پردہی - (پردا - (۱) ہی (۱) مٹ (۱) بڑا برتن جس میں چوپاؤں کو کھلاتے
 پلاتے ہیں -
 پردی - (۱-۲) مٹ (۱) باجرا - کی - بوار کے ہرے پر دے جو جانوروں
 کو کتر کر کھاتے جاتے ہیں (۲) جانوروں کا گھاس کھانا (۳) انسان
 کا بے وقت کھانا -
 پردی - (Cherry) (انگ - (۱) مٹ (۱) آلو بالو - شاہ دانہ -

پج

پڑ - (۱-۲) مٹ (۱) پھٹنے یا پرانے کی آواز -
 پڑ - (۱-۲) مٹ (۱) ناگوار بات یا کوئی ایسی چیز جس کا سننا دیکھنا
 بہت ناگوار ہو -
 پڑ (پڑ) نکالنا - (۱) محاورہ (پڑ نکالنا - خفتہ دلانا -
 پڑ - (۱-۲) مٹ (۱) فرج - حورت کی شرم گاہ -
 پڑا - (پج - (۱) مذ (۱) مذ (۱) ایک پھوٹا سا پرندہ - پڑیا کا مذکر -
 پڑانا - (پج - (۱) نا (۱) معص (۱) دن کرنا - خفتہ دلانا -
 پڑا - (پڑا - (۱) مٹ (۱) مٹ (۱) بڑا بڑا - بکواس -
 پڑا - (پڑا - (۱) محاورہ (پڑا - (۱) مذ (۱) بک کرنا -
 پڑا - (پڑا - (۱) مٹ (۱) مٹ (۱) پھٹنے کی آواز (۲) بک بک -
 پڑا - (پج - (۱) مذ (۱) صفت (۱) تنگ مزاج - زود روخ - بدخودہ آدمی

پڑھنا کا دودھ - (ا) شل، نامکس بات - عناق چیز -
 پڑھنا کے پھنلے میں کپڑے جانا - (ا) مادہ) مفت میں بدنام ہونا -
 پڑھنا گھر - (ا) مذ) جہاں قسم قسم کے جانور ہوں -
 پڑھنا ٹوٹن - (ا) مذ) بوٹیاں توڑنا - مذاب - تکلیف -
 پڑھنا ٹیل - (ج) ٹیل (ا) مذ) (ا) ہندوؤں کے عقیدے کے مطابق
 اس عورت کی روح جو محل یا نجس حالت میں مر جائے (۲) بھتی - ڈانٹ
 (۳) لڑا کا عورت (۴) گندی عورت (۵) بدصورت عورت -

پڑھنا جو بن - (ا) مذ) پڑھنا ہوا تھن -
 پڑھنا ہونا - (ا) مادہ) ترقی کرنا - بہتر ہونا - اعلیٰ ہونا -
 پڑھتے اترتے - ہتے جلتے - کسی قدر کم دیش - تھوڑے فرق سے -
 پڑھتے جاند - (ا) مذ) (ا) پینے کا شروع (۲) اگلے پینے کے شروع میں -
 پڑھتی - (پڑھ - تی) (ا) مذ) صفت) پڑھنا کی تائینٹ (ا) زیادتی (۲)
 برتری (۳) فائدہ -
 پڑھتی جوانی - جوانی کی ابتدا -
 پڑھتی کلا جاگتی جوت - (دعا) چاند کی طرح چمکو اور روشن رہو -

چ - س

چسنا - (ج) سانا) (د) ص) دودھ پلانا کسی چیز کا زب یا جونوں سے کھونا -
 چسپاں - (چس - پاں) (ف) صفت) (ا) چپکا ہوا (۲) موزوں - ٹھیک -
 چسپاں کرنا - لگانا - چپکانا - موزوں کرنا -
 چسپیدگی - (چس - پید - گی) (ف) صفت) (ا) چپکنا (۲) محبت -
 چسپیدہ - (چس - پی - دہ) (ف) صفت) چپکا ہوا چمٹا ہوا - جمع چسپیدگان -
 چسپت - (ف) صفت) (ا) پھرتیلا - چالاک - تیز - ہوشیار (۲) تنگ (۳)
 موزوں (۴) مضبوط - محکم -
 چسپت و چالاک - دیکھے چسپت - تندرست اور ہوشیار -
 چسپتہ - (چس - پتہ) (ف) صفت) (ا) مذ) (ا) جما ہوا دودھ - شیردان (۲) بڑی
 آنت کا آخری تیسرا حصہ -
 چسپتی - (چس - تی) (ف) صفت) (ا) پھرتی - چالاک (۲) دلیری - عزت -
 چسپتر - (چس - تر) (ا) مذ) (ا) بڑا کوٹ جو سردیوں
 میں استعمال کرتے ہیں -
 چس جانا - (چس - جانا) (د) ص) کپڑے کا تنگ ہو کر مسک جانا (۲)
 انگیا کا پھٹ جانا -
 چس جانا - (چس - جانا) (د) ص) (ا) پڑھنا (۲) ڈبلا ہونا - دس نکل مانا -
 چسک - (ج - سک) (د) ص) (ا) مذ) (ا) ہلکا درد - میس (۲) گولٹا کناری کی باریک
 خرید ہو گوٹ کے پیچھے ٹانگتے ہیں -
 چسکا - (چس - کا) (د) ص) (ا) مذ) (ا) زبان کا مزہ - چاٹ - چمور ہیں (۲) خواہش
 شوق (۳) عادت - لت -
 چسکنا - (ج - سک - نا) (د) ص) (ا) میٹھا میٹھا درد ہونا -
 چسکی - (چس - کی) (د) ص) (ا) مذ) (ا) گھونٹ - بڑو - کش (۲) گھلی ہوئی ایفون
 کا گھونٹ - جو خلاف وقت چیا جانے -
 چسکی لگانا - (ص) مرکب) مڑک جانا - ایفون پینا -
 چسنا - (چس - نا) (د) ص) (ا) بڑا جانا (۲) طاقت ضائع ہونا (۳)
 (ا) مذ) بچوں کا چونے کا کھلونا -
 چسنی - (چس - نی) (د) ص) (ا) مذ) (ا) چوسنی - بچوں کے چونے کا کھلونا -
 دودھ پلانے کی بوتل -
 چسونا - (چس - ونا) (نا) (د) ص) چسنا -

چڑھنا - (پڑھ - نا) (د) ص) (ا) نیچے سے اُپر جانا (۲) سوار ہونا (۳)
 موزوں ہونا (۴) بڑھنا (۵) حمل کرنا - دھاوا کرنا (۶) اچھڑنا (۷)
 ترقی کرنا (۸) گراں ہونا (۹) اڑنا (۱۰) غلبہ جانی ہونا (۱۱) بہتر ہونا
 (۱۲) بخار ہونا (۱۳) ڈھول دینے کو جانا (۱۴) بڑی کا بگڑا ہونا -
 (۱۵) سانس پھولنا (۱۶) جہارت ہونا (۱۷) نشہ ہونا (۱۸) قرص
 بڑھنا (۱۹) سورج کا طلوع ہونا (۲۰) پھانسی لگانا -
 چڑھواں - (پڑھ - وال) (د) ص) کھڑی جوتی - مردانہ جوتی - کھڑی
 ایرٹی کی جوتی -
 چڑھی - (ج - ٹھی) (د) ص) (ا) بڑھی ہوئی (۲) بھری ہوئی -
 (۳) کسی ہوئی -
 چڑھی بارگاہ - (ا) ص) (مٹ) بلذمر تہ - مروج - انتہائی ترقی -
 چڑھی کھانا - (ا) مادہ) کبوتر کا دوسرے کے کبوتروں میں بار بار جانا -
 چڑھی گنگا اترنا - (ا) مادہ) بڑا کام کرنا -
 چڑھی ہونا - (ا) مادہ) (ا) نشہ ہونا (۲) مزدور کا نشہ ہونا -
 چڑھیٹ - (ج - ٹھیٹ) (د) ص) (ا) مذ) (ا) پڑھنے والا (۲) اچھا سوار -
 (۳) وہ سوار جو گھوڑے کا مالک نہ ہو -
 چڑھیٹا - (ج - ٹھیٹ) (تا) (د) ص) (ا) مذ) وہ شخص جو دوسرے کے گھوڑے
 پر نوکر ہو - بارگاہ -
 چڑھی - (ج - ٹھی) (ڈی) (د) ص) (ا) ص) (مٹ) (ا) لات - اڑنگا -
 چڑھی دینا - چڑھی مارنا - (ص) مرکب) (ا) لات مارنا - اڑنگا دینا -
 اچھل کر لات مارنا -
 چڑھی - (ج - ٹھی) (ڈی) (د) ص) (ا) ص) (مٹ) (ا) پڑنا -
 چڑھی مار - (ا) مذ) مینا - پرندے پکڑنے والا -
 چڑھی مار لوہ، بھانت بھانت کا پیچھی بولا - (ا) شل) اس مجلس کے
 متعلق کہتے ہیں یہاں ہر ایک کی رائے مختلف ہو -
 چڑھی مار ہمیشہ بھوکے ننگے رہتے ہیں - (ا) شل) عالم کسی سرسبز
 نہیں رہتے -
 چڑھی مار لوہا - (ا) مذ) ہر مذوں کی مٹی -
 چڑیا - (پڑیا) (د) ص) (مٹ) (ا) چڑھے کی مادہ - پرندہ (۲) پوہلا (۳)
 ازار بند ڈالنے کی جگہ (۴) انگیا کی کٹوریوں کے درمیان کی سلائی -
 (۵) بیہوشی کے کھینے کی چیز پونوں کی بنی ہوئی ہوتی ہے -
 چڑیا خانہ - (ا) مذ) جہاں پرندے رکھے جاتے ہیں -

ح - ش

چشتی - (پش. ق) (د. ف. صفت) (۱) چشت کا باشندہ (۲) صوفیا کا ایک مشہور سلسلہ جو خواجہ حسین الدین چشتی سے چلتا ہے۔

چشک - (د. ف. ۱) (مٹ) (۱) زیادتی (۲) غصے سے بچا ہوا کھانا۔
چشم - (د. ۱) (مٹ) (۱) آنکھ - دیدہ - نیس - نیتز - مین (۲) آس - امید - جمع چشمان چشمہ

چشم آشا - (د. ف. صفت) شاسا - واقف۔
چشم بد - (د. ف. ۱) (مٹ) بڑی نظر - لگ جانے والی نظر۔
چشم بدوور - (د. ف. ۱) (مٹ) دعا نظر بدوور ہو - نظر نکلے۔

چشم براہ - (د. ف. ۱) (مٹ) منظر - نگراں۔
چشم بکسل - (د. ف. ۱) (مٹ) ایک قسم کا کپڑا۔
چشم بندک - (د. ف. ۱) (مٹ) آنکھ بھولی۔

چشم بوسی - آنکھوں کو بوس دینا - دیدہ بوسی۔
چشم بے آب - (د. ف. صفت) بے حیا۔
چشم بیمار - (د. ف. ۱) (مٹ) آنکھ جو بند ہو کر دیکھتی ہو (شرم یا ناز سے)

خوبصورت اور مست آنکھ کو اس سے تشبیہ دی جاتی ہے (۲) نشئی آنکھ - شمار آلود آنکھ۔
چشم بینا - (د. ف. صفت) ہوشیار - تیز فہم - تیز نظر۔
چشم پر آب یا چشم پر نم - (د. ف. ۱) (مٹ) روتی ہوئی آنکھ - آنسوؤں سے بھری ہوئی آنکھ۔

چشم پوشی - (د. ف. ۱) (مٹ) دیکھ کر ٹال جانا - درگزر کرنا۔
چشم تر - (د. ف. ۱) (مٹ) رونے والی آنکھ۔
چشم خون آلود - (د. ف. ۱) (مٹ) تہر بھری آنکھ - سرخ آنکھ۔

چشم داشت - (د. ف. ۱) (مٹ) امید - آس - توقع۔
چشم دید - (د. ف. صفت) آنکھوں دیکھا۔
چشم زخم - (د. ف. ۱) (مٹ) آنکھ کا دکھنا (۲) بڑی نظر کا دکھ یا نقصان۔

چشم زدن - (د. ف. ۱) (مٹ) پک بھکتے - فوراً لہ بھریں۔
چشم زدن میں - بہت جلد - فوراً۔
چشم ماروشن - دل ماشاؤ - (د. ف. ۱) (مٹ) ہمدرد چشم - مین راحت ہے۔

آنکھوں کو کچھ کچھ کھنڈک - اہلکار خوشنودی۔
چشم نمائی - تشبیہ - بھڑکی - سرزنش - ملامت۔
چشم نیم باز - چشم نیم خواب - (د. ف. ۱) (مٹ) ادھ کھلی یا شرمیلی آنکھ۔

چشم و ابرو - (د. ف. ۱) (مٹ) اشارے - انداز۔
چشم و ابرو سے جان لینا - (۱) عاودہ (۲) اشارے سے پہچان لینا۔
چشم و چراغ - (د. ف. ۱) (مٹ) عزیز - بڑا پیارا۔

چشمک - (پش. تک) (د. ف. ۱) (مٹ) (۱) آنکھ کا اشارہ - آنکھ مارنا (۲) رنجش - مخالفت (۳) چھوٹی آنکھ۔
چشمک زدن - (د. ف. صفت) آنکھ سے اشارہ کرنے والا - طعنہ دینے والا۔
چشمک زنی - (د. ف. ۱) (مٹ) طعنہ زنی - طنز کرنا۔

ح - غ

چشم - (پش. مٹ) (د. ف. ۱) (مٹ) پانی کا سوتا (۲) عینک - عین چشمہ - چشمہ آفتاب - (د. ف. ۱) (مٹ) سورج۔

چشمہ حیوان - چشمہ نضر - (د. ف. ۱) (مٹ) آب حیات کا روایتی چشمہ۔
چشمہ زاہد چشمہ سار - (د. ف. ۱) (مٹ) جس علاقے میں چشمے بہت ہوں۔
چشمہ سلیمان - (د. ف. ۱) (مٹ) بہشت میں ایک بہن۔

چشیدہ - (پش. ش. ۱) (مٹ) (د. ف. صفت) پکھا ہوا (۲) بجزیرہ کار۔

چشنا - (د. ف. ۱) (مٹ) عبا - بٹیہ۔
چشتائی - (پش. تا. ای) (د. ف. صفت) (۱) چشتا سے منسوب جو چنگیز خاں کا بیٹا تھا (۲) چشتا کی اولاد میں سے - خاندان منیلہ۔

چشند - (د. ف. ۱) (مٹ) آلودگی کی ایک چھوٹی قسم۔
چشند بول جانا - (۱) عاودہ (۲) برباد ہو جانا - تباہ ہو جانا۔
چشعل - (پش. غ. غل) (د. ف. ۱) (مٹ) پھٹے پھٹے کسی کی بدگواہی کرنے والا - لٹرا - برائی کرنے والا (۲) وہ لکھتے ہیں علم میں تباہی کے نتیجے رکھتے ہیں۔

چشعل خور - (د. ف. صفت) غیبت کرنے والا - غاصب۔
چشعل خور خدا کا پھور - (۱) شعل (۲) چشعل خور کی مذمت کے لیے کہا جاتا ہے۔
چشعل خوری - (د. ف. ۱) (مٹ) غیبت - لٹرا - برائی۔

چشعلی - (پش. لی) (د. ف. ۱) (مٹ) غیبت - کسی کی برائی کرنا۔
چشعلی کھانا - (۱) عازلی کرنا - غیبت کرنا - برائی کرنا۔

ح - ف

چھفت - (د. ف. ۱) (مٹ) سست - کاہل۔
چھفتہ - (د. ف. ۱) (مٹ) کوڑی کا بنا ہوا کرہ جس کی چھت کوڑی کے ستونوں پر ہو (۲) پایہ - ٹھوٹی (۳) منڈپ - منڈا (۴) جالی (۵) انگوٹھی۔

چھفتی - (پش. ق) (د. ف. ۱) (مٹ) وہ چھٹی کوڑی جس سے سیدھی لکیریں کھینچتے ہیں - مسطر (۲) خوشامدی۔

ح - ق

چھتی - (د. ف. ۱) (مٹ) چھل - چک - بانس یا سرکنڈے کی تیلیوں کا پردہ۔
چھتا چاقی - (پش. تا. چاق) (د. ف. ۱) (مٹ) تھوڑوں دینارے کے پتلے کی آواز۔
چھتر - (پش. قر. دار) (د. ف. ۱) (مٹ) چتر - تالاب۔

چھتی ماق - چھتی حق - (پش. ق) (د. ف. ۱) (مٹ) ماق - چھتی حق - (د. ف. ۱) (مٹ) ایک چتر جس سے آگ مٹتی ہے۔

چتی ماق بھارتنا - (۱- محاورہ) چتی ماق سے آگ نکالنا۔
 چتھندر - (ج - فن - ذر) (۱- ذ) ایک ترکاری جو شلم سے مشابہ
 اور نہایت مٹرخ ہوتی ہے۔
 چتھندرسا - (۱- تابع فعل) بہت مٹرخ - موٹا تازہ لال انگارہ۔
 چتھندرسابن رہا ہے - (۱- مقولہ) مٹرخ و سفید ہو رہا ہے۔ موٹا
 تازہ ہو رہا ہے۔
 چتھندر کا شتم زردک برآید - (ف - مثل) بد قسمتی کے اظہار کے طور
 پر کہتے ہیں۔

چ - ک

چک - (۱- ذ) (۱- ارضی) جائداد میں منقولہ - کاشت - قطعہ - ٹٹی - قطعہ
 زمین (۲) زمین کا چھکڑا (۳) پنجاب کی نہری آبادی میں گاؤں اہمال
 مریخ بندی ہوتی ہو (۴) پھیر - بھاؤ۔
 چک - (۱- ذ) گذریا (۲) آٹھ۔
 چک - (۱- مٹ) کمر کا درد۔
 چک برابر - (۱- ف - مذ) لگان وصول کرنے والا۔
 چک بست - (۱) چکوں میں تقسیم شدہ ریاست (۲) گاؤں کے کھیت
 (۳) چک کا مالک۔
 چک بندھنا - (۱) کسی چیز کا زیادہ ہونا (۲) پھیر پڑنا۔
 چک بندی - ارضی کی مد بندی - پیمائش کی سہولت کے لیے حدبست
 کے نقشے کے اندر کوئی مناسب حصے کرنا۔
 چک کھڑا - زمین کا ایک خاص حصہ۔
 چک نامہ - (۱- ف - مذ) ایک دستاویز جس میں ارضی کا عدد وار اور
 اور کھیتوں کی فہرست ہوتی ہے۔
 چک - (۱- مٹ) (۱) پکا - دھچکا - جھٹکا (۲) چلن (۳) کمر کا درد - چک
 (۴) نقاب - چھوٹا گوشہ نیچے والا۔
 چک آنا - (۱- محاورہ) کمر میں جھٹکا آنا۔
 چک - (Cheque) (۱- آگ - مذ) درشنی بندوی - نقدی ملنے کا
 پرچہ جو کسی بینک وغیرہ کے نام لکھا جاتا ہے۔
 چک (دینا) کاٹنا - (۱- محاورہ) چک لکھ کر دینا۔
 چک - (۱- مٹ) (۱) کمر یا ریڑھ کی ہڈی میں درد ہونا (۲) کم۔
 چکا - (چک - کا) (۱- مذ) (۱) پتھروں وغیرہ کی ناپ کے لیے گول
 یا چوکور (۲) جما ہوا - مجھد۔
 چکا باندھنا - اینٹوں کا پتھور بنانا۔
 چکا چک - (ف - مٹ) تلواروں کے متواتر پڑنے کی آواز۔ تیل یا گھی
 میں ڈوبا ہوا۔
 چکا چاندھ - (پونڈھ) - (۱- مٹ) تیز روشنی کے باعث آنکھوں کا بھینکا۔
 چکا - آٹھ پونڈھیا نے کی حالت (۲) تعجب - حیرت - گھبراہٹ۔

چکا دہی - جما ہوا دہی۔
 چکا - (چک - کا) (۱- مذ) (۱) دھوکا - فریب (۲) بہانہ کے جھگ جانا۔
 چکا لگانا - غیر حاضر ہونا۔
 چکارا - (چک - کا) (۱- مذ) (۱) ایک قسم کا چھوٹا ہرن (۲) چھوٹی سارنگی۔
 چکاری - (چک - کا) (۱- مٹ) (۱) چاکری (۲) چوری کا تابع ٹہل۔
 چکاری - (چک - کا) (۱- مٹ) (۱) شکاری چاقو (۲) پتھر
 (۳) فش۔
 چکال - (چک - کا) (ف - صفت) (۱) گرانے والا - پھڑکنے والا۔ اردو
 میں مریکات کے آفریں آتا ہے جیسے تول چکال۔
 چکان - (چک - کان) (۱- مٹ) (۱) گاڑھا - جما ہوا (۲) داغ دار
 (۳) زخم کا نشان۔
 چکانا - (چک - کا) (۱- مٹ) (۱) تمنت ٹھہرانا - بھاؤ کرنا - فیصلہ کرنا۔
 حساب لے باق کرنا - بھگانا - پورا کرنا۔
 چکاوک - (چک - کا) (۱- ذ) (۱) چنڈول (۲) مٹخاب۔
 چکاؤ - (چک - کا) (۱- مٹ) (۱) فیصلہ۔
 چکانی - (چک - کا) (۱- مٹ) (۱) چکانے کا کام (۲) فیصلہ۔
 (۳) دھوکا - فریب (۴) آگسٹ۔
 چکانی دینا - (۱- محاورہ) (۱) دھوکا دینا (۲) فریب دینا (۳) آگسٹ آنا۔ آمادہ کرنا۔
 چک بچک - (چک - ب - چک) (۱- مٹ) (۱) تیل یا گھی میں ڈوبا ہوا۔
 چک پھیری - (چک - پھی - پھی) (۱- مٹ) (۱) پکر باندھ کر مٹھے میں پھیرنا۔
 چکت - (چک - کت) (۱- مٹ) (۱) کسی کو دانتوں سے کاٹنا۔
 چکت مارنا - (۱- محاورہ) دانتوں سے کاٹ کھانا - مٹ مارنا - دانت مارنا۔
 چکتا - (چک - کت) (تا) (۱- مذ) (۱) گول ٹکڑا - گوشہ کا ٹکڑا (۲) گول نشان
 (۳) زخم کا نشان (۴) کانٹے کا نشان (۵) گھاس کی بڑوں کا ڈھیلا۔
 چکتا - (چک - کت) (۱- مٹ) (۱) مقررہ - فیصلہ شدہ (۲) معینہ۔
 چکتا کر لینا - (۱- محاورہ) چکانا - بے باق کرنا۔
 چکتی - (چک - تی) (۱- مٹ) (۱) بڑے کا چھوٹا گول ٹکڑا (۲) ٹکیا۔
 قرض - (۱) ڈبے کی چوڑی ڈوم۔
 چکت - چکتا - (چک - کت) (چک - ٹا) (۱- مٹ) (۱) نہایت نیلا۔
 میلا کھیلا (۲) لیس دار (۳) چکتا (۴) جما ہوا۔
 چکت جانا - چکتنا - (مٹ) میلا ہونا - چکتا ہٹ اور میل سے بھرا ہونا۔
 چکت لگانے (پھرنا) رہنا - (۱- محاورہ) میلے کپیلے رہنا۔
 چکتا چکتا - (چک - ٹا) (چک - ٹا) (۱- مٹ) (۱) میلا کھیلا تیل اور مٹھے سے جلا ہوا۔
 چکتا چکتی - (چک - ٹا) (چک - ٹا) (۱- مٹ) (۱) مٹھی بھر - چکتی بھر۔
 چک چک - (۱- مٹ) (۱) جسم پر تلواروں کے متواتر پڑنے کی آواز۔
 (۲) روشن میں تر بتر۔
 چک لوٹنے سے (چکتنا) کھانا - گھی میں تر بتر نالے اڑانا۔
 چک چکا - (چک - چک) (۱- مٹ) (۱) روشن - چک دار۔
 چک چکی - (چک - کی) (۱- مٹ) (۱) ایک قسم کا خنجر یا چاقو (۲) چینی
 سی ٹیوں کی بوڑھی بوخیز اور بوگی ہاتھ میں لے کر جاتے ہیں۔

چنگل - (چنگ - کل) (د-ا- مذ) کسی پودے کی جڑوں سمیت وہ مٹی جو ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ لگانے کے لیے پودے کے ساتھ لٹائی جاتی ہے۔

چنگل - (چنگ - کل) (ق-ا- مذ) دباؤ۔

چنگلا - (چنگ - لا) (صفت) (۱) گول - (۲) دور - (۳) پوڑا - (۴) فراخ (۳)

(۱) مذ) وہ گول پتھر جس پر روٹی بیٹے میں (۲) علاقہ - صوبہ - جاگیر

(۵) رنڈیوں کے بستے کا مقام (۶) دانہ دینے کی پتلی - چکنی کا پاٹ۔

چنگلا بندی - (۱) حسندی (۲) صوبے کو حصوں میں تقسیم کرنا۔

چنگلے دار - (۱) مذ) (۲) صوبے یا چنگلے کا حاکم - جاگیر دار (۳) طوائفوں کے غلے کا پودہری۔

چنگلے میں بیٹھنا - (۱) محاورہ) رنڈی کا بیٹھا اختیار کرنا۔

چنگلاٹ - (چنگ - لاٹ) (ق-ا- مذ) دباؤ۔

چنگلان - (چنگ - لان) (د-ا- صفت) چوڑائی۔

چنگلانا - (چنگ - لانا) (د-ا- صفت) چوڑا کرنا - بڑا کرنا۔

چنگلکس ہونا - (چنگ - کل - لس - ہو - نا) (د-ا- صفت) تھوڑی جگہ پر بڑی بھیر ہونا۔

چنگلنا - (چنگ - کل - نا) (ق-ا- صفت) دانا - بیٹھنا۔

چنگلی - (چنگ - لی) (د-ا- صفت) (۱) چوڑی - فراخ (۲) (۱-ا- صفت) چرخی۔

(۳) سندان گھسنے کا چھوٹا پتھر۔

چنگمہ - (چنگ - مہ) (د-ا- مذ) (۱) دھوکا - فریب (۲) نقصان (۳)

ایک کھیل۔

چنگمہ چل جانا) چلنا - (۱) محاورہ) (۱) داؤں چلنا (۲) فریب کی چال چلنا۔

چنگمہ دینا - (۱) محاورہ) دھوکا دینا۔

چنگمہ کھانا - (۱) محاورہ) دھوکا کھانا - فریب میں آنا۔

چنگ ناگ - (چنگ - ناگ) (چنگ - نگ) (د-ا- صفت)

چتن ماق اور چتن من کا بڑا ہوا۔ آگ نکالنے کا پتھر۔

چنگ مک دیدہ کھانے بلیدہ - (۱) مثل) بدھن عورت عیش کرتی ہے۔

چنگن - (چنگ - کن) (ق-ا- صفت) (۱) بیل بوسے کا کام - کشیدہ کاری یا

سوزن کاری (۲) بیل بوٹوں والا کام۔

چنگن دوز (کار) - (ق-ا- صفت) چنگ بنانے والا۔

چنگن (دوزی) کاری - (ق-ا- صفت) چنگ بنانے کا کام۔

چنگنا - (چنگ - نا) (ق-ا- صفت) ہینا - گڑنا - چنگنا۔

چنگنا - (چنگ - نا) (د-ا- صفت) (۱) تیل لگا ہوا - روغن (۲) چربی دار ہونا۔

(۲) بہت صاف - پالش کیا ہوا (۳) خوبصورت (۵) رونق دار (۶)

بے جیا - بے غیرت (۷) تیل مٹی چربی وغیرہ (۸) پھسلوان۔

چنگنا چیرا - (۱) چرب - تیل لگا ہوا (۲) خوش بو (۳) بنا ٹھنا۔

چنگنا دیکھ پھسل پڑے - (۱) مثل) دولت دیکھ کر تھک گئے۔ خوبصورت دیکھ کر مر گئے۔

چنگنا کرنا - (۱) محاورہ) (۱) چنگنا پیچنا - تیل لگانا (۲) صاف کرنا۔

چنگنا کھڑا - (۱) صفت) بے جیا - بے غیرت - بے شرم۔

چنگنا کھڑا بوند پڑی پھسل (پڑی) مٹی - (۱) مثل) بے غیرت پر لعنت سلامت

چنگ چوندھلا - (چنگ - چوندھ - لا) (د-ا- صفت) (۱) روشنی سے چنڈھا یا ہوا (۲) جس کی نظر کمزور ہو - نیم اندھا۔

چنگ چوندھی - (چنگ - چوں - دھی) (د-ا- صفت) چکا چوندھ۔

چنگ چوڑی - (چنگ - چوڑی) (د-ا- صفت) بڑے کا ایک کھلونا۔

چنگ ڈڑھیا - (چنگ - ڈڑھ - یا) (د-ا- صفت) چنگی داڑھی والا - وہ شخص جس کی داڑھی کے بال صرف ٹھوڑی کے نیچے اُگے ہوں۔

چنگر - (چنگ - گر) (د-ا- مذ) (۱) دائرہ - حلقہ - گھرا (۲) گاڑی کا پتیا (۳)

گہار کا چاک (۴) ایک گول ہمتیار جو سٹھ پگڑی پر باندھتے ہیں۔

(۵) بھنور (۶) بگولا (۷) کوہو (۸) گول مرگ (۹) گردش (۱۰)

مرگ گھومنا (۱۱) حیرت۔

چنگر آنا - (۱) محاورہ) مرگ گھومنا - غش آنا۔

چنگر باندھنا - (۱) محاورہ) (۱) حلقہ باندھنا (۲) کسی چیز کو اس طرح گھمانا

کہ دائرے کی شکل بن جائے۔

چنگر دینا - (۱) محاورہ) (۱) پھرانا (۲) بے راستے سے چلانا (۳) حیران کرنا

پریشان کرنا - بیل دینا (۴) گھوڑے کو پھیرنا۔

چنگر کاٹنا - (۱) محاورہ) (۱) بار بار آنا جانا - پھیرے کرنا (۲) گردش کرنا۔

چنگر کرنا - (۱) محاورہ) پھرنا - پھیرے کرنا۔

چنگر کھانا - (۱) محاورہ) (۱) گھومنا (۲) تورا نا (۳) گھبرا جانا (۴) آوارہ پھرنا۔

چنگر کی مرگ - (۱) صفت) (۱) وہ مرگ جو شہر کے گرد گرد ہوتی ہے (مرگ روڈ)

چنگر لانا - (۱) محاورہ) شرارت کرنا - فساد اٹھانا۔

چنگر (لنگنا) مارنا - (۱) محاورہ) پھرنا - گردش کرنا گشت کرنا - بار بار آنا جانا۔

چنگر میں (آنا) ہونا - (۱) محاورہ) مصیبت میں پھینسا پریشان ہونا۔

چنگر میں ڈالنا - (۱) محاورہ) مصیبت میں پھینسا (۲) حیران کرنا (۳) راستہ بھلانا۔

چنگرا جانا - (۱) محاورہ) (۱) گھبرا جانا (۲) مرگ چنگر کھانا۔

چنگرا دینا - (چنگ - را - دے - نا) (د-ا- صفت) پریشان کر دینا۔

چنگرانا - (چنگ - را - نا) (د-ا- صفت) (۱) گردش کرنا - گھومنا (۲) گھبرانا - غش کھانا۔

چنگر اند - (د-ا- مذ) ایک دوا کا بیج جو دواؤں میں کام آتا ہے اور دیاں کو تحلیل کرتا ہے۔

چنگر مگر - (چنگ - گر - تم - کر) (د-ا- مذ) دغا - فریب - دھوکا۔

چنگر مگر لگانا - (۱) محاورہ) جیلر والہ کرنا۔

چنگری - (چنگ - ری) (د-ا- صفت) چرخی - گھرنی - پھرنی۔

چنگر یا - (چنگ - کر - یا) (د-ا- مذ) نوکری پیشہ - چاکر باش۔

چنگر - (چنگ - کر) (ق-ا- مذ) کچھڑ۔

چنگر مٹی - (چنگ - مٹی) (د-ا- صفت) ایک قسم کی زرد لکڑی جس کی لنگھیاں بنتی ہیں۔

چنگس - (چنگ - نس) (ق-ا- مذ) ہاتھ پرندوں کے بٹھانے کی لکڑی۔

چنگسا - (چنگ - سا) (ق-ا- مذ) ایک قسم کا مسوز جو عورتیں بال صاف کرنے کے لیے استعمال کرتی ہیں۔

چنگش - (چنگ - کش) (ق-ا- صفت) پانی کا چنگنا - ٹپکا۔

ساکھلا دینا۔
 چکھ (جانا) ڈالنا۔ (د۔ صص) (۱) کھا جانا۔ بہنم کر جانا (۲) خورد خورد کر جانا۔
 مال اڑا دینا۔
 چکھنا۔ (چکھ۔ نا) (د۔ صص) (۱) ذرا سا کھانا (۲) ذائقہ یا چاشنی دیکھنا۔
 لذت اٹھانا۔ مزہ اڑانا (۳) سزا پانا۔
 چکھوتی۔ (ج۔ کھو۔ تی) (د۔ ۱۔ مٹ) لذت کھانا۔
 چکھوتیاں کرنا۔ بازار کے سودے سکنٹ کھانا۔ چوراہن کرنا۔
 چکھی۔ (چکھ۔ ٹھی) (د۔ ۱۔ مٹ) (۱) چاٹ۔ چسکا (۲) کسی کا مال کھانا۔ ٹیڑ
 کوڑائی سے پہلے تھوڑا سا دانا کھلانا۔
 چکھی۔ (ج۔ ک۔ ای) (د۔ ۱۔ مٹ) (۱) ایک کھلونا (۲) پھر کی۔ نارنگی۔
 (۳) چلو کی مادہ۔
 چکھی اڑو۔ (۱) مذ۔ گول اڑو۔
 چکی۔ (چک۔ کی) (د۔ ۱۔ مٹ) (۱) آٹا پیسنے کا آلہ (۲) گھٹنے کی ہڈی۔
 (۳) ہندو کے نیچے لگائی جانے والی کڑھی (۴) کڑھی یا دھات
 کا گول ٹکڑا۔
 چکی پھیرنا۔ چکی چلانا۔
 چکی پیس کر گزارا کرنا۔ (۱) عاوردہ) نہایت عزیز ہونا۔ محنت مزدوری
 کر کے پیٹ پالنا۔
 چکی پیسنا۔ (صص۔ مرکب) (۱) چکی چلانا (۲) مصیبت بھگتنا (۳) کسی کام
 کو بہت تک کیے جانا۔
 چکی تلنا۔ (۱) عاوردہ) چکی کا کھر دیا گیا جانا۔
 چکی جھوننا۔ (۱) چکی چلانا۔ آٹا پیسنا (۲) طویل وقفہ شروع کرنا۔
 ڈکھڑا رونا۔
 چکی رہا۔ (۱) وہ شخص جو چکی کو کھر درا کرتا ہے۔
 چکی کا پاٹ۔ چکی کا ہر ایک حصہ۔
 چکی نامہ۔ وہ گانا جو شادی کے موقع پر اُٹھنا پڑتا ہے وقت عورتیں گایا
 کرتی تھیں۔
 چکی۔ (چک۔ کی) (د۔ ۱۔ مٹ) فریب۔ دغا۔
 چکی دینا۔ دھوکا دینا۔
 چکی چکی۔ (چک۔ کی) (د۔ ۱۔ مٹ) بچوں کی زبان میں ختم ہو گئی۔
 چکیدہ۔ (ج۔ کی) (د۔ ۱۔ مٹ) چسکا ہوا۔

ج۔ گ

چکھانا۔ (ج۔ گا۔ نا) (د۔ صص) (۱) پر ہندوں کو دانہ کھلانا۔
 چکھانی۔ (ج۔ گا۔ تی) (د۔ ۱۔ مٹ) (۱) صراب۔
 چکھانی۔ (ج۔ گا۔ ای) (د۔ ۱۔ مٹ) (۱) بھنگانے کی اُمرت (۲) چکھنا (۳)
 چکھنے کی چیز۔
 چکھ ڈرھیا۔ (چکھ۔ ڈرھ۔ یا) (د۔ صص) (۱) چکی دارسی والا چھوٹی سی دارسی والا۔

کاجھی کوئی اثر نہیں ہوتا۔
 کھانا مٹیا پیٹ خالی۔ (۱) مٹیا۔ (۲) مٹیا بہت مگر پیٹ خالی۔
 کھنکھنے۔ منہ کو سب چوستے ہیں۔ (۱) مٹیا۔ (۲) مٹیا کی سب خوشامد کرتے ہیں۔
 کھنکھ جڑ۔ (چکھ۔ نا۔ پور) (د۔ صص) (۱) کھنکھے۔ پورے۔ پورے۔
 کھنکھے۔ (۲) کھنکان۔
 کھنکھ جڑ کرنا۔ (۱) عاوردہ) کھنکھے کھنکھے کرنا۔ ریزہ ریزہ کرنا۔
 کھنکھنا۔ (چکھ۔ نا۔ نا) (د۔ صص) (۱) روغن لگانا (۲) مٹیاں باتیں کرنا۔
 کھنکھ ڈٹ۔ کھنکھ پھٹ۔ (چکھ۔ نا۔ ڈٹ) (چکھ۔ نا۔ پھٹ) (د۔ ۱۔ مٹ) (۱) کھنکھنا۔
 کھنکھنا۔ (۱) مٹیاں کھنکھنا۔
 کھنکھنا۔ (چکھ۔ نا۔ ای) (د۔ ۱۔ مٹ) (۱) تیل۔ گھی۔ روغن۔ چربی۔
 (۲) بے ستری۔
 کھنکھنی۔ (چکھ۔ تی) (د۔ صص) (۱) کھنکھنا۔ (۲) روغن (۳) صاف
 ستری۔ پکدار۔
 کھنکھنی باتیں۔ (۱) مٹیاں خوشامد کی باتیں۔
 کھنکھنی بیڑی باتیں کرنا۔ (۱) عاوردہ) خوشامد یا چالوسی کی باتیں کرنا۔
 کھنکھنی ڈٹی۔ (۱) مٹیاں ایک قسم کی چالیہ جیسے دودھ میں پکا کر بناتے ہیں۔
 کھنکھنی مٹی۔ (۱) مٹیاں ایک قسم کی مٹی جو لینے کے کام آتی ہے۔
 کھنکھنا۔ (ج۔ کن۔ یا) (د۔ صص) (۱) البٹا۔ بانگا۔ پھیلا۔
 کھنکھو۔ (چکھ۔ کو) (د۔ ۱۔ مٹ) چاقو کا بگڑا ہوا۔
 کھنکھو۔ (چکھ۔ وا) (د۔ ۱۔ مٹ) (۱) مٹیاں۔ ایک پرند جو دریا کے کنارے
 رہتا ہے۔
 کھنکھو چکھی۔ مٹیاں کا جوڑا مشہور ہے کہ چکھی چکھی دن بھر ساتھ رہتے
 ہیں۔ رات کو جگمگا کر گزارا مادہ ندی کے دونوں کناروں کے ایک ایک
 درخت پر بیٹھ جاتا ہے اور صبح تک ایک دوسرے کو پکارتے رہتے ہیں۔
 کھنکھو۔ (ج۔ کو۔ تا) (د۔ ۱۔ مٹ) (۱) فیصلہ (۲) بے باقی۔
 کھنکھو۔ (ج۔ کو۔ تا) (د۔ ۱۔ مٹ) (۱) مٹیاں جن میں کھنکھنے کے نیچے پھینچنا
 نکل آتی ہیں اور تمام ٹانگ پر پھیل جاتی ہیں۔
 کھنکھو۔ (ج۔ کو۔ ت۔ را) (د۔ ۱۔ مٹ) تاریخ کی قسم کا ایک پھل۔ بڑا میوہ۔
 کھنکھو۔ (چکھ۔ ڈٹ) (د۔ صص) (۱) کھنکھنی۔ مزہ (۲) لذت۔ خوش ذائقہ۔ مزہار۔
 کھنکھو۔ (ج۔ کو۔ گور) (د۔ ۱۔ مٹ) (۱) مٹیاں قسم کا ایک پہاڑی خوشنما و خوش آواز
 پرند۔ یہ چاندنی رات میں خوب پہچانا ہے۔ اس لیے اسے چاند کا
 عاشق کہتے ہیں۔

کھنکھو۔ (چکھ۔ ڈر) (د۔ ۱۔ مٹ) (۱) مٹیاں۔
 کھنکھو۔ (ج۔ کو۔ گور) (د۔ ۱۔ مٹ) (۱) مٹیاں بالوں کا جوڑا۔
 کھنکھو۔ (ج۔ کو۔ ای) (د۔ ۱۔ مٹ) (۱) کھنکھو کی مادہ۔
 کھنکھو۔ (ج۔ کو۔ یا) (د۔ ۱۔ مٹ) (۱) مٹیاں ایک قسم کا کھانا۔
 کھنکھو۔ (د۔ صص) (۱) ذرا۔
 کھنکھو چکھی کرنا۔ (۱) عاوردہ) (چکھ۔ کھا۔ کھن۔ کھن) (د۔ صص) (۱) تھوڑا سا
 چکھ لیا۔
 کھنکھو۔ (ج۔ کھا۔ دے۔ نا) (د۔ صص) (۱) مٹیاں۔ (۲) مٹیاں۔ (۳) مٹیاں۔

چلا جیل - (۱- صف) (۱) ساکن و میز ساکن (۲) ادھر ادھر جانا (۳) حرکت کرنا
(۴) بے قیام - بے ثبات.
چلا چیلنا - (۱- محاورہ) چلتے رہنا۔
چلا چلی - (۱- مٹ) (۱) ایل جیل (۲) سفر کی تیاری (۳) سفر پر روانگی (۴)
موت کی گرم بازاری۔
چلا چکیتی - (حج - لا - چک - تی) (۱- مٹ) (۲) آنکھ۔
چلان - (حج - لان) (۱- مذ) چالان -
چلانا - (حج - لا - نا) (۱) مصلحت (۱) ٹانگنا - روانہ کرنا (۲) جاری کرنا - بہانا۔
(۳) کاروبار جاری کرنا - بندوبست کرنا (۴) بلانا - حرکت دینا۔
(۵) پھیلانا (۶) سود پر دینا (۷) استعمال کرنا (۸) نکلانا -
رخصت کرنا۔

چگ - (حج - گ) (۱- مٹ) ایک پرندہ۔
چنگ لینا - (چنگ - لے - نا) (۱) مٹا لینا - چن لینا - قنبل کر
لینا (۲) تکرار کرنا (۳) چنگل۔
چنگو - (چنگ - گو) (۱- مٹ) (۱) دماغی جس میں صرت ٹھوڑی کے
نیچے بال نکلیں اور وہ لمبے ہوں۔
چنگولی - (حج - گون - گی) (۱- مٹ) (۱) کیفیت - اصلیت (۲)
خاصیت (۳) حقیقت مگر
چنگونہ - (حج - گو - نہ) (۱) کس طرح۔

حج - ل

چلاؤ - (۱- مٹ) (۱) برہمی - ہراگندگی (۲) اختلاف - فرق - دھوکا - جھوٹ
(۳) دھوکا ہٹ (۴) مٹ دور ہو (۵) روانگی - رخصت - کوچ (۶)
چلتا ہوا - حرکت کرتا ہوا (۷) ہل کے ساتھ بطور تابع (۸) چلنا کا انتر۔
چل بسنا - (۱- محاورہ) مرنے جانا۔
چل پڑنا - (۱- محاورہ) (۱) روانہ ہونا (۲) چلنے لگنا (۳) شروع ہونا -
(۴) روانہ ہو جانا۔
چل پھیر - (۱- مٹ) (۱) گردش (۲) چالاک (۳) آمد و رفت۔
چل جانا - (۱- محاورہ) (۱) نکل جانا - پھٹ جانا (۲) ہسر ہو جانا - گزر جانا۔
چل پیچ - (۱) چلنے - (۲) گھڑ نفرت (۳) چل دور - ہٹ - دور ہو - چلا جا۔
چل چلاؤ - (۱- مذ) (۱) درباروی (۲) سفر - کوچ۔
چل دینا - (۱- محاورہ) (۱) رو چکر ہو جانا - بھاگ جانا (۲) ذلت ہو جانا۔
چل کھڑا ہونا - (۱- محاورہ) روانہ ہونا۔
چل نکلنا - (۱- محاورہ) (۱) حد سے بڑھنا (۲) اتر جانا - گھنٹے میں آجانا -
(۳) گستاخ اور بے ادب ہو جانا (۴) بڑھ جانا - آگے نکل جانا (۵)
چل پڑنا - روانہ ہو جانا۔
چل نہ سکوں مرا اللہ نام - (۱- مثل) ہمت اور حوصلے سے زیادہ
دعویٰ کرنے والے کی نسبت بولتے ہیں۔
چل ہوا میں - (۱- محاورہ) دور ہو جا - چلا جا۔
چل - (۱- مٹ) (۱) جارح - کھیل (۲) باہ کی مستی - شہوت (۳)
پیشہ کاری - بے گلی - بے پینی۔
چل اٹھنا - (۱- محاورہ) (۱) کھلی ہونا (۲) شہوت ہونا (۳) چھڑ چھاڑ کی خواہش ہونا
چل مٹانا - (۱- محاورہ) (۱) جارح دور کرنا (۲) خواہش یوری کرنا۔
چل مانی - (۱- مٹ) مست عورت - شوخ اور شرار عورت۔
چلا - (۱- فعل) (۱) روانہ ہوا (۲) قابو سے نکلا۔
چلا آنا - (۱- محاورہ) لگتا آنا۔
چلا جانا - (۱- محاورہ) (۱) روانہ ہونا - رخصت ہونا (۲) جاری رہنا - بڑھنا
کام کرتے رہنا (۳) دیر تک رہنا - درپا ہونا - سلسلہ نہ ٹوٹنا۔
چلا چاہنا - (۱- محاورہ) چلنے کے لیے تیار ہونا - چلنے کا ارادہ کرنا۔

چلاؤ - (حج - لا - او) (۱- صف) (۱) عارضی قسم کا نا پائیدار - فانی۔
چلاؤ - (حج - لا - او) (۱- مذ) (۱) روانگی - حرکت (۲) رسم - رواج - چلن۔
چلاؤ - (حج - لا - او) (۱- مذ) (۱) بے گوشت کا پلاؤ - نکیں خشکر۔
چلا ہٹ - (چل - لا - ہٹ) (۱- مٹ) (۱) پیچ - پکار - فریاد۔
چلانی - (حج - لا - نی) (۱- مٹ) (۱) پیچ۔
چل پل - (چل - پل) (۱- مٹ) (۱) کتے کے پتھے کی آواز (۲) پتوں
کی گھرائی ہوتی آواز۔
چلبلا - (چل - ب - لا) (۱- صف) (۱) چلانا رہنے والا - شوخ - چالاک۔
چلبلا پن - چلبلا ہٹ - (۱- صف) (۱) بیقراری - شوخی - چھیل پن۔
چلبلا کی - (چل - ب - لا - گی) (۱- مٹ) (۱) چلبلا ہٹ۔
چلبلا نا - (چل - ب - لا - نا) (۱- مٹ) (۱) بے چین ہونا - بے قرار ہونا۔
چلبلا سہ - (چل - پ - سہ) (۱- مٹ) (۱) چھیل۔
چلپرا - (چل - پ - را) (۱- مذ) (۱) ایک قسم کا کبوتر جس میں تھوڑی سی
سیندی دوسرے رنگ کے ساتھ رہتی ہوئی ہو۔
چلٹا - (چل - تا) (۱- صف) (۱) ہٹا ہوا - رواں - جاری (۲) مرتوج (۳)
چالاک - ہوشیار (۴) جھگٹ ہوا (۵) کارگر - پڑاڑ۔
چلتا بننا - چلتا ہونا - (۱- محاورہ) چلتا ہونا - بھاگ جانا۔
چلتا پڑوہ - (۱- صف) (۱) بڑا چالاک اور مستحق آدمی۔
چلتا زمانہ (سمان) - (۱- مذ) بڑھاپے کا زمانہ۔
چلتا کرنا - (۱- محاورہ) (۱) روانہ کرنا (۲) ہلاک کرنا (۳) کارروائی کے قابل
کرنا (۴) کسی کا کام نکال دینا (۵) تیز کرنا۔
چلتا ہوا - (۱- صف) (۱) کارگر - پڑاڑ - کامیاب (۲) چالاک - ہوشیار۔
چلت پھرت - (حج - لت - پھرت) (۱- مٹ) (۱) پھرتی - چالاک۔
(۲) رفتار - گردش (۳) حرکات۔
چلتڑ - (حج - لت - ٹڑ) (۱- مذ) فریب - کمر - چال - چھل۔
چلتڑ بازی - (۱- مٹ) (۱) چالاک - فریب - دھوکا بازی۔
چلتڑ - (چل - تڑ) (۱- مذ) زبرد پھرت لڑائی کے وقت کی ایک پوشاک۔

چلتی - (پہل - پی) (۱) چلتے والی (۲) جاگتی ہوئی۔
چلتی (۱) چلتی (پھرتی پھاؤں - (۲) شش) دنیا کی دولت ناپا بنڈارا اور
 چند روزہ جاہ و مراتب سے مراد ہے جو کبھی اس کے اور کبھی اُس کے
 پاس ہے (۳) جلد ختم یا گزرنے والی چیز۔
چلتی کا نام گاڑی ہے۔ (۱) شش) جب تک کام بنا رہے اس وقت
 تک نام رہتا ہے۔
چلتی گاڑی میں روزانہ لگانا۔ (۱) عمارت) ہوتے ہوئے کام کر دینا۔
چلتی جو اسے لڑنا۔ (۱) عمارت) نہایت بد مزاج ہونا۔ خواہ خواہ لڑائی کرنا۔
چلتی ہوئی بات۔ (۱) امت) وہ بات جو سرسری طور پر کہی جائے۔
چلتے۔ (پہل - تے) (۱) تابع فعل) چلتی کی صورت میثروہ کام کرتا ہوا۔ جھاگتا ہوا۔
چلتے میل کے آرٹھیگنا۔ (۱) عمارت) کام کرنے والے کو روکنا۔ ناجی کسی کو تنگ کرنا
چلتے پھرتے نظر آؤ۔ (۱) عمارت) رخصت ہو جاؤ۔ رو پھرتے ہو جاؤ۔ چلے جاؤ۔
چلتے چلتے۔ (۱) تابع فعل) میں جانے کے وقت۔ روانہ ہونے کے وقت۔
 دورانِ سفر میں۔
چلتے چلنے کوئی لالچ۔ (۱) شش) بہت سائقان ہونے پر جو کچھ بھی
 مل جائے غیبت ہے۔
چلتے لالچ۔ (۱) تابع فعل) جب تک لالچ میں کام کرنے کی طاقت ہے۔
 جب تک قابو حاصل ہے۔
چلچلی۔ (پہل - چل) (۱) شش) ابرق - ابرک - ایک کافی جو ہر جاکھ بھری
 میں چلتے ہوئے لٹکتے ہیں۔
چلچلاتا۔ (پہل - چل) (۱) شش) لالچ - لالچ - (۱) شش) سخت گرم۔ جلانے والا۔
چل چلاتی۔ (پہل - چل) (۱) شش) چل چلاتا کی تائینٹ۔ نہایت گرم
 جلانے والی۔
چلچلاتی دھوپ۔ (۱) شش) سخت تیز دھوپ۔
چلچلاتا۔ (پہل - چل) (۱) شش) چل چلاتا (۲) چل چلاتا (۲) بے فائدہ
 شور و غوغا کرنا۔
چلچلاتا۔ (پہل - چل) (۱) شش) چلچلاتا (۲) چلچلاتا (۲) چلچلاتا (۲) چلچلاتا (۲)
چل چلاؤ۔ (پہل - چل) (۱) شش) چل چلاتا کی تائینٹ۔ نہایت گرم
 جلانے والی۔
چلچلی۔ (پہل - چل) (۱) شش) چلچلی (۲) چلچلی (۲) چلچلی (۲) چلچلی (۲)
چل سیں۔ (پہل - سیں) (۱) شش) چل سیں یا چلیں گے۔
چل سیں چل سیں۔ (پہل - چل) (۱) شش) چل سیں (۲) چل سیں (۲) چل سیں (۲)
چل سوز۔ (پہل - سوز) (۱) شش) چل سوز (۲) چل سوز (۲) چل سوز (۲)
چلک۔ (پہل - چک) (۱) شش) چلک (۲) چلک (۲) چلک (۲) چلک (۲)
چلکا۔ (پہل - چک) (۱) شش) چلکا (۲) چلکا (۲) چلکا (۲) چلکا (۲)
چلکانا۔ (پہل - چک) (۱) شش) چلکانا (۲) چلکانا (۲) چلکانا (۲) چلکانا (۲)
چلکانا۔ (پہل - چک) (۱) شش) چلکانا (۲) چلکانا (۲) چلکانا (۲) چلکانا (۲)
چلکانا۔ (پہل - چک) (۱) شش) چلکانا (۲) چلکانا (۲) چلکانا (۲) چلکانا (۲)
 پر رگھو کرم لگاتے ہیں۔

چلم بردار۔ (۱) مذ) حقہ چلانے والا لازم۔
چلم بھرنا۔ (۱) عمارت) چلم پر تباہ اور آگ رکھنا (۲) گھٹیا خدمت کرنا
چلم پینا۔ (۱) عمارت) (۱) حقہ پینا (۲) گھٹیا یا چوس پینا۔
چلم چرت۔ (۱) شش) بہت حقہ پینے والا۔
چلمچی۔ (پہل - چم) (۱) شش) (۱) شش) (۱) شش) (۱) شش) (۱) شش) (۱) شش) (۱) شش)
 جس کے سر پریش میں جمید ہوتے ہیں۔
چلمین۔ (پہل - چم) (۱) شش) (۱) شش) (۱) شش) (۱) شش) (۱) شش) (۱) شش) (۱) شش)
چلمین چھوڑنا۔ (۱) عمارت) چلمین کا پردہ ڈالنا۔
چلمین۔ (پہل - چم) (۱) شش) (۱) شش) (۱) شش) (۱) شش) (۱) شش) (۱) شش) (۱) شش)
 درواج (۳) عمارت) برتاؤ (۵) کنایت شمار۔
چلم بگڑنا۔ (۱) عمارت) رفتار ناموزوں ہونا۔ سلامت روی میں فرق آنا
 عادات و اطوار خراب ہونا۔
چلم چلنا۔ (۱) شش) (۱) شش) (۱) شش) (۱) شش) (۱) شش) (۱) شش) (۱) شش)
چلم سیکھنا۔ (۱) عمارت) دوسرے کی وضع اختیار کرنا۔
چلم سے چلنا۔ (۱) عمارت) کنایت شمار سے گزارا کرنا۔ وضع داری
 سے گزر بسر کرنا۔
چلم مند۔ سخت رفتار (۱) شش) (۱) شش) (۱) شش) (۱) شش) (۱) شش) (۱) شش) (۱) شش)
چلم مار۔ (۱) شش) (۱) شش) (۱) شش) (۱) شش) (۱) شش) (۱) شش) (۱) شش)
 چلم ہونا۔ (۱) عمارت) بکے کار وراج ہونا۔
چلمنا۔ (پہل - نا) (۱) شش) (۱) شش) (۱) شش) (۱) شش) (۱) شش) (۱) شش) (۱) شش)
 رخصت ہونا (۳) درواج پانا (۴) جاری ہونا۔ پینا۔ رواں ہونا۔
 (۵) نکلنا (۶) چھٹنا۔ مسکنا (۷) نشہ ہونا (۸) مرنا (۹) لڑائی ہونا۔
 (۱۰) فریب دینا (۱۱) ترقی کرنا۔ آگے بڑھنا (۱۲) بندوق یا توپ
 چھٹنا (۱۳) کارگر ہونا (۱۴) پیا جاننا (۱۵) گرت آنا۔ بازار میں
 آنا (۱۶) رواں ہونا (۱۷) اثر کرنا (۱۸) شراب کا دور ہونا (۱۹)
 لباس کا دیر تک کام آنا (۲۰) رسائی ہونا (۲۱) کہنے پر عمل کرنا۔
چلمنت۔ (پہل - لنت) (۱) شش) (۱) شش) (۱) شش) (۱) شش) (۱) شش) (۱) شش) (۱) شش)
چلمو۔ (پہل - لوم) (۱) شش) (۱) شش) (۱) شش) (۱) شش) (۱) شش) (۱) شش) (۱) شش)
 رتیق چیز لی جا سکے۔
چلمو بھر۔ (۱) شش) (۱) شش) (۱) شش) (۱) شش) (۱) شش) (۱) شش) (۱) شش)
چلمو بھر پانی میں ڈوب کر۔ (۱) عمارت) غیرت دلانے کا کلمہ۔
چلمو لینا۔ (۱) عمارت) کئی کرنا۔ کھانے کے بعد منہ صاف کرنا۔
چلمو میں اٹو ہونا۔ (۱) عمارت) ذرا سی نشہ آور چیز لی کر بیہوش ہونا۔
چلمو میں سمندر نہ سمانا۔ کوزے میں سمندر نہ آنا۔ چھوٹے ظرف واسطے سے
 بڑا کام نہ ہونا۔ کم حوصلہ آدمی سے بڑے کام کا انصرام نہ ہونا۔
چلموؤں روانہ۔ (۱) عمارت) زار قطار روانہ۔ بہت روانہ۔
چلموؤں لہو بڑھنا۔ (۱) عمارت) بہت خوش ہونا۔
چلموؤں لہو دینا۔ (۱) عمارت) بہت ستانا۔ خوب مارنا۔
چلموؤں لہو خشک ہونا۔ (۱) عمارت) بہت رنج ہونا۔ سخت صدر ہونا۔
چلموا۔ (پہل - لوم) (۱) شش) (۱) شش) (۱) شش) (۱) شش) (۱) شش) (۱) شش) (۱) شش)

چمالی۔ (رج۔ ما۔ لی) (نت۔ ا۔ ذ) شراب پلانے والا۔ ساقی۔
 چمال۔ (نت۔ ا۔ ذ) ہل بل چلنا۔ اکر کر چلنا۔
 چمائنے۔ (ج۔ ما۔ نئے) (ق۔ ا۔ ذ) نصلیں۔ جڑنا۔
 چمبر لین۔ (Chamberlain) (رجم۔ بر۔ لین) (انگ۔ ا۔ ذ) بادشاہ
 یا امیر کے انور خانہ داری کا منتظم۔
 چمبک۔ (چم۔ بک) (س۔ ا۔ ذ) کتاب کا خلاصہ (۲) خارچ قسمت۔
 (۳) عالم و فاضل (۴) ترازو کا درمیانی حصہ (۵)
 بد معاش۔ دغا باز۔
 چمبک پتھر۔ (چم۔ بک۔ پتھ۔ قمر) (ا۔ ذ) مقتطیس۔ آہن ربا۔
 چمپا۔ (چم۔ یا) (۱۔ مٹ) ایک قسم کا درخت جس کا پھول سفیدی پیلے
 زرد رنگ کا اور نہایت خوشبودار ہوتا ہے۔
 چمپا کے دس پھول پھیلنے کی ایک گلی۔ (د۔ مٹ) تھوڑی اور
 موڑ گھ کی ساری رات چاند کی ایک گھری اچھی چیز گھینا کر بہت سی
 چمپے سے بہتر ہوتی ہے۔
 چمپا گلی۔ گلے کا ایک زلیور جس کے دلنے چمپا کے پھول سے مشابہ ہوتے ہیں۔
 چمپخت۔ (چم۔ پخت) (د۔ صف) چمپا ہونا۔ غائب۔
 چمپخت ہونا۔ رخصت ہونا۔ جلد چلا جانا۔ ہوا ہوجانا۔
 چمپو۔ (چم۔ پو) (۱۔ مٹ) بڑی کشتی۔
 چمپوٹی۔ (چم۔ پت۔ ای) (د۔ صف) سونے یا چمپا کی سی رنگت کا۔
 چم پیئیزی۔ (Chimpanzee) (چم۔ پیئ۔ ڈی) (انگ۔ ا۔ ذ) (۱)
 لوئز (۲) افریقہ کا ننگور جو انسان سے مشابہ ہوتا ہے۔
 چمپشا۔ (چم۔ ش) (۱۔ مٹ) دست پٹا۔ آگ پکڑنے کا آلہ۔
 چمپشانہ۔ (چم۔ ش) (۱۔ مٹ) (۱) چپاں کرنا۔ چپکانا (۲) پچھنے لگانا (۳)
 پشاننا۔ گلے سے لگانا۔
 چمپشنا۔ (چم۔ مٹ) (۱) چپکانا۔ چپاں ہونا (۲) پچھنے پڑنا۔
 (۳) پٹینا۔
 چمپٹی۔ (چم۔ ٹی) (۱۔ مٹ) (۱) چھوٹا چمپا (۲) چنگلی۔
 چمپٹی لینا۔ چنگلی کا ٹنا۔
 چمپٹی۔ (چم۔ ٹی) (ق۔ ا۔ مٹ) پیروٹی۔ چنگلی۔
 چمچ۔ (چم۔ چ) (د۔ مٹ) (۱) بڑی جوچ والی ایک سفید پڑیا (۲)
 (د۔ چمچ۔
 چمچ۔ (چم۔ چ) (د۔ مٹ) (۱) چمچڑی کی طرح چمڑے سے چوٹ جانے
 والا۔ پچھانہ چھوڑنے والا۔
 چمچاننا۔ (چم۔ ج۔ ما۔ نا) (ا۔ مٹ) چکنا۔ بھکننا۔
 چمچھا ہٹ۔ (چم۔ ج۔ ما۔ ہٹ) (د۔ مٹ) چمک۔
 چمچیر۔ (چم۔ چیر) (نت۔ ا۔ ذ) کوئی رقیق چیز پینے کا آلہ۔ ڈوٹی۔ کچھ۔
 چمچہ۔ (چم۔ چی) (ا۔ مٹ) چھوٹا چمیر۔ کھانا ہونا لگانے کا چھوٹا سا آلہ۔
 چمچم۔ (چم۔ م) (نت۔ ا۔ ذ) (۱) چمک دک (۲) چمچ و م۔
 چمچم۔ (چم۔ م) (۱۔ مٹ) (۱) چمچ کا مختلف۔
 چمچم۔ (چم۔ م) (۱۔ مٹ) (۱) چمچ کا مختلف۔
 چمچم۔ (چم۔ م) (۱۔ مٹ) (۱) چمچ کا مختلف۔

چلو۔ (چل۔ و) (۱۔ مٹ) ایک قسم کی بون۔
 چلوانا۔ (چل۔ وا۔ نا) (د۔ مٹ) چلنا کا مستدی المقدی۔
 چلوانا۔ (چل۔ وا۔ نا) (د۔ مٹ) چلانا کا مستدی۔
 چلوائنس۔ (چل۔ وائس) (د۔ مٹ) (۱) پلا جٹ (۲) ام الصبیان کی بیاری
 میں پینے کی چلا ہٹ۔
 چلوٹا۔ (چل۔ لو۔ ٹا) (د۔ مٹ) ڈوٹی۔ چمچ۔ کت گیر (۲) چھوٹا دستہ جس سے
 پر خر چلاتے ہیں۔
 چلوٹے۔ (چل۔ وٹے) (ق۔ ا۔ ذ) چلوٹا کی بیج چلنے والے (تیز رفتار)۔
 چلوٹیا۔ (چل۔ وٹیا) (ق۔ ا۔ ذ) چلنے والا۔
 چلوٹ۔ (چل۔ لوٹ) (نت۔ ا۔ مٹ) (۱) مکان کی تانت (۲) چالیس دن کا عرصہ (۳)
 چالیس روز کا عمل (۴) وہ جگہ جہاں کسی بزرگ نے چلا کسی کی جو (۵)
 زپر کا چالیسویں دن بنانا۔
 چلوٹہ۔ (چل۔ وٹہ) (۱۔ مٹ) (۱) چالیس دن کسی گز میں بیٹھ کر
 کوئی عمل یا ذلیفہ پڑھنا۔
 چلوٹھانا۔ (۱۔ مٹ) تانت کو تان کر مکان کے اوپر لگانا۔ تیر کو تانت میں لگانا۔
 چلوٹے کی سردی۔ (د۔ مٹ) سنت سردی۔ بوس مالگ کی سردی۔
 چلوٹا۔ (چل۔ وٹا) (د۔ مٹ) چلنے کے بلانے کی آواز۔
 چلیسیا۔ (چل۔ بی۔ یا) (۱۔ مٹ) (د۔ صف) (۱) صلیب۔ دارسولی (۲)
 پٹھانہ۔ بندہ۔
 چلی چلی بی ماھو آئی۔ (د۔ مٹ) (۱) شل (۲) بڑھے بڑھتے بات یہاں تک پہنچ
 گئی (۳) لڑکوں کا ایک کھیل۔
 چلی۔ (چل۔ لی) (ق۔ ا۔ مٹ) سوراخ۔

چ — م

چم۔ (د۔ ا۔ مٹ) چڑا۔ کمال۔ چم۔
 چمچ کرنا۔ (چم۔ ما۔ چم۔ کرنا) (ا۔ مٹ) (۱) خوب چمکانا۔
 چمار۔ (چم۔ مار) (د۔ مٹ) (۱) چمکانے والا (۲) چوٹی (۳) جوتیاں سینے
 یا گانٹھے والا (صف) (۲) کینز۔ سفد۔ سنج۔
 چمار چوڑس۔ (د۔ مٹ) (۱) چماروں کا بڑا چوار (۲) کم نظری کے باعث
 ہند روزہ خوش حالی پر اترانا۔
 چمار چمڑے کا یار۔ (۱۔ مٹ) چمار چوڑس سے ہی پیدا ہوتا ہے۔
 چمار کو عرش پر بھی بیکار۔ (۱۔ مٹ) عزیب کی ہر گز کم بنتی ہے۔
 چمار کی جو رو اور ٹوٹی جوتی۔ (۱۔ مٹ) نازیبا بات۔ ناموزوں بات۔
 چمار کے گوشے سے ڈھور نہیں مرتے۔ (۱۔ مٹ) بد عادات سے کسی کو
 نقصان نہیں پہنچتا۔
 چمارن۔ چمارنی۔ چمارنی۔ (چم۔ مارنی) (چم۔ مارنی) (ج۔ ما۔ ری) (۱)
 (۱۔ مٹ) (۱) چمار کی بیوی (۲) چمار ہاروی کی صورت۔
 چمار سے۔ (چم۔ ما۔ رس) (ق۔ ا۔ مٹ) (۱) آئینہ۔

دم مارنا۔

چمڑ ڈھینک - (ہ۔ مذ) گدھ - کرگس۔

چمرخ - (ہم۔ رخ) ڈار - ۱۔ مٹ و صفت (۱) وہ چڑے یا گونجھ کی پتلی سی چیز جس کے اندر تکلا پھرتا ہے (۲) ڈملا - بتلا - کمزور۔

چمرس - (ہم۔ رس) (ہ۔ مذ) وہ رقم جو جوتی کی رگڑ سے پڑ جائے۔

چمڑا - (ہم۔ ژا) (ہ۔ مذ) کھال - پوست - جلد (ہ۔ صفت) نہ لگنے کے قابل سخت گوشت۔

چمڑا تارنا (ادھیڑنا، پھڑانا، کھینچنا، نکلنا) - (۱۔ محاورہ) چمڑا یا کھال بدن سے ہٹ کرنا۔

چمڑی - (ہم۔ ڈی) (ہ۔ مذ) مٹا کھال - پوست (چڑے کی تصویر)۔

چمڑی جائے دھڑی نہ جائے - (۱۔ مثل) اس خیل کی نسبت بولتے ہیں جو پیسہ دینے کی جگہ جمانی سزا بھگتے کو ترجیح دے۔

چمڑے کے پہاڑ چلانا - (۱۔ محاورہ) قرساتی کا پیشہ کرنا۔ زنا کا پیشہ کرنا۔ کٹنا یا کرنا۔

چمڑے کی زبان ہے - (۱۔ مثل) بھول چوک ہو رہی جاتی ہے۔

چمک - (ہم۔ ک) (ف۔ مٹ) (۱) روشنی - جھلک - بھڑک - آب و تاب (۲) ترقی کرنا ہونا دور۔

چمک اٹھنا - (۱۔ محاورہ) (۱) شغفے ہو جانا - جوش میں آ جانا۔ برافروختہ ہونا۔ (۲) درد اٹھنا (۳) روشن ہو جانا۔

چمک (چاندنی) چاننی - (۱۔ مٹ) وہ عورت جو ادب اش عورتوں کی طرح بنیاد ہی تھی رہتی ہو۔

چمک دار - (ف۔ صفت) چمکیلا۔ درخشاں - جگمگاتا۔

چمک دک - (ف۔ مٹ) جھلک - آرائش - زیب و زینت - تالش۔

چمکاٹ - (ہم۔ کاٹ) (ف۔ مٹ) چمک۔

چمکار - (ہم۔ کار) (ہ۔ مذ) پیار - دلاسا۔

چمکارا - (ہم۔ کار) (۱۔ مذ) چمک - روشنی۔

چمکارنا - (ہم۔ کارنا) (ہ۔ ص) پیار کرنا۔ دلاسا دینا۔ چمکانا۔

چمکانا - (ہم۔ کانا) (ہ۔ ص) (۱) آب دینا - سیتل کرنا (۲) بھڑکانا۔ برافروختہ کرنا (۳) گھوڑے کی رفتار کو تیز کرنا (۴) رونق بڑھانا۔

چمکنا - (ہم۔ کنا) (ہ۔ ص) (۱) روشنی دینا۔ کوڈنا (۲) نام پانا۔ رونق پانا (۳) جھلکانا۔ جگمگانا۔ دکھنا (۴) بھڑکانا۔ (۵) عروج پکڑنا۔ بلند ہونا

(۶) زور پکڑنا (۷) لڑائی ہونا۔ جنگ ہونا۔ جھگڑا ہونا (۸) گرم بازاری ہونا خوب بکری ہونا (۹) گھوڑے کا خوب دوڑنا۔

چمکو - (ہم۔ ککو) (ہ۔ ص) (۱) چھال - فاختہ۔ بدکار (۲) شوخ - چھیل عورت (۳) جھگڑا اور عورت۔

چمکوانا - (ہم۔ کنا) (ہ۔ ص) سیتل کرنا۔ آب دلوانا۔

چمکول - (ہم۔ کول) (ہ۔ ص) چمکانا ہوا۔ چمک والا۔ روشن (۲) عورتوں کی لفظی زبانی۔

چمکی - (ہم۔ کی) (ہ۔ مٹ) (۱) چھوٹا کام۔ چھوٹا پیشہ (۲) وہ ستارے جو نکلنے و خیز میں پرو کرنا نکلے جاتے ہیں۔

چمکی کا دستہ - خالص ستاروں کی پیل جس میں گھومکھوڑ نہ ہو۔

چمکلا - (ہم۔ کی) (لا۔ ہ۔ ص) چمک دار۔ جگمگاتا۔

چمکا ڈر - چمکیدر - (ہم۔ گا۔ ڈر) (ہم۔ کی۔ ڈر) (ہ۔ مٹ) ایک پرند ہون بھر ہستوں یا درختوں کی شاخوں میں اٹنا انگڑبٹا اور رات کو اڑتا ہے۔ شہتر۔

چمکا ڈر کے گھر خان آئے ہم بھی لگھیں تم بھی لگھو۔ (ادب) جیسا میزبان ہوگا ویسی ہی جہان کی ترانہ ہوگی۔

چمکدل - (ہم۔ گ۔ دل) (ف۔ مٹ) (ہ۔ مذ) چمکا ڈر۔

چمیل - چملا - چمیلی - (ہم۔ مل) (ہم۔ لا) (ہم۔ لی) (ہ۔ مٹ) پہلے دو مذ چیل مٹ) چھوٹا کاسہ جس میں کمرہ فترا اور عزیز لوگ کھانا پانی رکھتے ہیں۔

چمن - (ہم۔ من) (ف۔ مٹ) (۱) وہ جگہ جہاں سبزہ پھول و شہتر بولیں (۲) باغ کے قطعات - گلزار - بھولاری۔

چمن آرا پچمن بند - چمن پیرا پچمن طراز۔ (ف۔ مذ) باغبان - مالی۔

چمن بندی - (ف۔ مٹ) باغ لگانا۔

چمن زار - چمنستان - پھولوں کا قلعہ - بھولاری - گلزار۔

چمنی - (Chimney) (ہم۔ نی) (ایم۔ مٹ) دھات یا شیشے کی لہنی نالی - دودکش - ٹائیس۔

چموٹا - (ہم۔ مو۔ ٹا) (ہ۔ مذ) (۱) چمڑے کا وہ ٹکڑا جس پر نائی گسٹری اصناف کہتے ہیں (۲) صفت (۳) بیوقوف۔

چموٹی - (ہم۔ مو۔ ٹی) (ہ۔ مٹ) وہ چمڑا جو قیدوں کے پاؤں میں زنجیر کی رگڑ سے پختے کے لیے لگا دیتے ہیں۔

چمورانی - (ہم۔ مو۔ را۔ نی) (ہ۔ مٹ) بچوں کا ایک کھیل۔

چ - ن

چنا - (ہم۔ نا) (ہ۔ مذ) خود - لونٹ - ایک اناج جو فصل ربیع میں پکتا ہے۔

چنا اور چنیل منہ لگا کر - (ادب) اپنے کھانے کی عادت پڑ جائے تو چھوٹی نہیں اور چنیل خور کے ساتھ مہربانی کی جائے تو وہ دوسروں سے لڑا دیتا ہے۔

چنا بھٹ کو نہیں چھوڑ سکتا - (ادب) کمزور زبردست کا کچھ نہیں کر سکتا۔

چننے چنالو یا شہنائی بجالو - (ادب) دو کام ایک ساتھ نہیں ہو سکتے۔

چننے سے بھین رہے ہیں - (ادب) آدمی چٹ پٹ مر رہے ہیں۔

چننا - (ہم۔ نا) (ف۔ مٹ) چاندنی۔

چنار - (ہم۔ نار) (ف۔ مذ) ایک بیلے ثمر درخت جس کی پتیاں بجنہ انسان کے مشابہ ہوتی ہیں۔

چننال - (ہم۔ نال) (ف۔ مٹ) ایک تیم کی جوتی۔

چننا مٹنا - (ہم۔ من۔ نا) (ہ۔ ص) بچوں کی زبان میں بہت چھوٹا۔

چننا نا - (ہم۔ نا۔ نا) (ف۔ مٹ) مشہور کرنا۔

چننال چنیں - چننان و چنیں - (ہم۔ نال۔ چ۔ نیس) (ہم۔ نا۔ نو۔ چ۔ نیس) (ف۔ مٹ) ایسا دیا۔ اس طرح اُس طرح (۲) لسانی (۳) میں بیخ - نفس۔

عیب (۴) بحث - بحثی - جھگڑا۔

چننا چنیں کرنا۔ (۱) عاودہ باریکیاں چھاننا۔ بھٹ کرنا تکرار کرنا۔ نفس نکالنا۔
 چنچا پنچہ۔ (۲) چن۔ نان۔ چہ۔ (۳) جیساکہ۔ مثلاً۔ اس طرح۔ اس طور سے۔
 چنناوٹ۔ (۴) چن۔ نا۔ وٹ۔ (۵) اسٹ۔ پکڑے کی چنائی (۶) اینٹ کا چننا۔
 چنناؤ۔ (۷) چن۔ نا۔ او۔ (۸) مذ۔ انتخاب۔ ایکشن۔
 چنائی۔ (۹) چن۔ نا۔ ای۔ (۱۰) اسٹ۔ اینٹ پتھر سے دیوار اٹھانا۔
 چنبر۔ (۱۱) چن۔ نا۔ (۱۲) مذ۔ (۱۳) سروش۔ حلقہ۔ گھیرا (۱۴) چلم کا سروش
 یا دھکنا (۱۵) گردن کی ہنسی۔
 چنبرہ رخ۔ آسمان کا دور۔
 چنبری۔ (۱۶) چن۔ بے۔ ری۔ (۱۷) صفت۔ گول۔ دائرہ نما۔
 چنک۔ (۱۸) چن۔ بگ۔ (۱۹) مذ۔ متناطیس۔
 چنبل۔ (۲۰) چن۔ بیل۔ (۲۱) اسم۔ مذ۔ (۲۲) بلیک کا پیالہ (۲۳) تھے کا سروش
 (۲۴) ایک بیماری۔
 چنبل۔ (۲۵) چن۔ بی۔ لی۔ (۲۶) اسٹ۔ ایک قسم کا پروٹا پیالہ۔
 چنبل۔ (۲۷) چن۔ بے۔ لی۔ (۲۸) اسٹ۔ ایک خوشبودار پھول۔ سن۔
 چنبل چاؤ میں آئی لڑکے بالے ساتھ لائی۔ (۲۹) مثل۔ لگایا کیلئے
 سر پر بڑھا۔
 چنبلیا۔ (۳۰) چن۔ بے۔ لی۔ یا۔ (۳۱) مذ۔ ایک قسم کا بھورے رنگ کا کبوتر۔
 چننت۔ (۳۲) چن۔ نت۔ (۳۳) اسٹ۔ اسٹ۔ پکڑے وغیرہ کی شکن۔
 چننا۔ (۳۴) چن۔ نا۔ (۳۵) اسٹ۔ ٹکر۔ اندیشہ۔ ڈر۔
 چننیل۔ (۳۶) چن۔ بیل۔ (۳۷) صفت۔ بھلا نہ بیٹھے والا۔ شوخ۔ بے چین۔
 چننا۔ (۳۸) چن۔ نا۔ (۳۹) صفت۔ بد مزاج۔ پڑ پڑا۔ بات بات پر
 بگڑنے والا۔
 چننا نا۔ (۴۰) چن۔ نا۔ نا۔ (۴۱) صفت۔ ٹھنکا۔ چس چس کرنا۔ پتھے کا رونا۔
 چن چن کر کے۔ (۴۲) اسٹ۔ انتخاب کر کے۔ چھانٹ چھانٹ کر۔
 چن چن کے نام رکھنا۔ (۴۳) بات بات پر بڑا کہنا۔ چھانٹ چھانٹ کر یہ
 نکالنا (۴۴) ہر بات پر طعنہ دینا۔
 چنچنی۔ (۴۵) چن۔ بی۔ نی۔ (۴۶) صفت۔ (۴۷) بد مزاج۔ پڑ پڑی (۴۸) وہ عورت جس
 کی آواز صاف اور باریک ہو۔
 چنچنی آواز۔ (۴۹) صفت اور باریک آواز (۵۰) بچوں کے بولنے کی آواز جب
 وہ بھنبھلاہٹ میں بولیں۔
 چنچنے۔ (۵۱) چن۔ سنے۔ (۵۲) مذ۔ وہ کیرٹے جو بچوں کے پیٹ میں مدد سے
 کی خرابی سے پیدا ہو جاتے ہیں۔ پڑنے۔
 چنچنے لگنا۔ (۵۳) عاودہ ناگوار گزارنا۔ مرہیں لگنا۔
 چنچ۔ (۵۴) صفت۔ (۵۵) کس قدر۔ کتنے۔ کچھ۔ قلیل۔ عمدہ۔ سوڑے۔
 چنچ بار۔ (۵۶) کئی بار۔ کئی مرتبہ۔
 چنچ روزہ۔ نا پائدار۔ بے ثبات۔ فانی۔ عارضی۔
 چنچا۔ (۵۷) چن۔ نا۔ (۵۸) مذ۔ چاند۔ ہتاب (۵۹) مور کی دم کا چاند۔
 چنچا ناموں۔ پتھے چاند کہتے ہیں۔
 چنچا۔ (۶۰) چن۔ دا۔ (۶۱) صفت اس قدر اتنی۔ ایسی۔
 چنچا لٹو۔ جس قدر۔ جتنا۔

چنچر۔ (۱) مذ۔ چاند۔ ماہ۔ ہتاب (۲) مور کی دم پر جو سپاند
 ہوتا ہے۔
 چنچر ہنسی۔ (۳) مذ۔ آبروں کے ایک مشہور خاندان کا نام جو اپنے آپ
 کو چاند دیوتا کی اولاد سمجھتے ہیں۔
 چنچر جوت۔ (۴) اسٹ۔ (۵) چاندنی (۶) آتش بازی کی ایک قسم۔
 چنچر کلا۔ (۷) مذ۔ (۸) چاند کے قطر کا سولہواں حصہ (۹) ایک زیور کا نام
 جو خاص کر مندروں کی صورتوں کے سر پر بندھتا ہے۔
 چنچر گرہن۔ (۱۰) مذ۔ چاند گرہن۔
 چنچر مال۔ (۱۱) مذ۔ چاند۔ ماہ۔ ہتاب۔
 چنچر مار۔ (۱۲) مذ۔ گلے کا ایک زیور۔
 چنچر مار۔ (۱۳) صفت۔ (۱۴) وہ شخص جس کی کھوپڑی پر بال نہ ہوں۔
 (۱۵) مثل۔ مذ۔ (۱۶) سوس۔ بد نصیب۔
 چنچرانا۔ (۱۷) چن۔ نا۔ (۱۸) صفت۔ (۱۹) ٹھنکانا (۲۰) جان بوجھ کر کوئی بات
 پوچھنا۔ تجاہل عارفانہ کرنا۔
 چنچراولی۔ (۲۱) چن۔ وا۔ ولی۔ (۲۲) اسٹ۔ (۲۳) کرشن جی کی ایک گولی (۲۴)
 ایک مشہور ٹانگ۔
 چنچر کی۔ (۲۵) چن۔ در۔ کی۔ (۲۶) اسٹ۔ چنچنی۔
 چنچر کی۔ (۲۷) چن۔ ری۔ (۲۸) اسٹ۔ رنگ رنگ کا دوپٹہ۔ چنچری۔
 چنچر ماری۔ (۲۹) چن۔ ما۔ ری۔ (۳۰) اسٹ۔ ایک پرند جس کی چونچ گردن اور
 پاؤں لائے ہوتے ہیں اور چونچ کے نیچے ایک تھیلی سی ہوتی ہے۔
 چنچن۔ (۳۱) چن۔ دن۔ (۳۲) اسٹ۔ (۳۳) صندل کی گڑھی۔
 چنچن کی چنگلی بھلی، گاڑھی بھرانہ کا ٹھہ۔ (۳۴) مثل۔ عورتی ایسی چیز اس
 زیادہ سے بہتر ہے جو خواب ہو۔ ذرا سا صندل گاڑھی بھرا ہندھن سے بہتر ہے۔
 چنچنا۔ (۳۵) چن۔ نا۔ (۳۶) اسٹ۔ (۳۷) چاندنی۔
 چنچوا۔ (۳۸) چن۔ وا۔ (۳۹) مذ۔ ٹہنی کے اوپر کا حصہ۔ گول ٹہنی کے اوپر کا
 گروہ۔ چھوٹا شامیانہ۔
 چنچو مٹی۔ (۴۰) چن۔ و۔ مٹی۔ (۴۱) چندی۔ چھوٹا کھڑا۔
 چنچوہ۔ (۴۲) چن۔ و۔ (۴۳) مذ۔ وہ روپیہ جو مختلف آدمیوں سے ملے کر
 کسی کام کے لیے جمع کیا جائے۔
 چنچوہا۔ (۴۴) چن۔ و۔ (۴۵) صفت۔ وہ شخص جس کی آنکھیں روشنی کی تاب نہ
 لاسکیں۔
 چنچوہانا۔ (۴۶) چنچوہ۔ یا۔ نا۔ (۴۷) صفت۔ تیز روشنی کے باعث آنکھیں
 جھپکتا (۴۸) آنکھوں کی کزوری کے سبب کم نظر آنا (۴۹) حیرت زدہ ہونا۔
 (۵۰) گھبرا جانا۔
 چندی۔ (۵۱) چن۔ دی۔ (۵۲) اسٹ۔ چھوٹا کھڑا۔ پڑوہ۔
 چندیا۔ (۵۳) چن۔ یا۔ (۵۴) اسٹ۔ (۵۵) سر کھوپڑی (۵۶) چھوٹی سی روٹی۔
 بچے ہونے آئے کی گھیا (۵۷) روٹی بڑھانے وقت بیچ میں جو گھیا
 سی رہ جائے۔
 چندیا پر بال نہ چھوڑنا۔ (۵۸) عاودہ (۵۹) ٹوٹ ٹوٹ کر کھا جانا۔ مثل۔
 کر جانا۔

چند یا سے پر سے سرک - (۱- مقولہ) پاس سے ہٹ - سر کے اوپر
 سر الگ جا کر کھڑا ہو -
 چند یا کھانا - (۱- مادہ) (۱۱) سر کھانا - برتیاں کھانے کو جی چاہنا -
 چند یا ٹونڈنا - (۱- مادہ) (۱۱) سر ٹونڈنا (۱۲) ٹوٹ کر کھانا (۱۳) سخت مزادینا
 چند یاں لے ڈالنا - (۱- مادہ) بہت لذت سلامت کرنا -
 چندیں - (ف- صفت) اتنا اتنی - کس قدر - کتنے -
 چندیں مدت خدان کی گردی گاؤ و خر نہ شناسی - (ف- مثل) جب کوئی
 شخص کسی کام میں ماہرین کی معمولی بات میں تیز نہ کر کے - اس وقت
 کہتے ہیں -
 چندے - (پہن - دلے) (۱۱) کچھ دیر (۱۲) کچھ روز (۱۳) کچھ عرصہ -
 چندے آفتاب چندے ماہتاب - (ف- صفت) حسن و جمال میں
 سوز اور چاند کے برابر -
 چندینا - (پہن - دلے) (نا) (۱۱) ترتیب دینا (۱۲) موکھا یا در بند کر دینا -
 چندال - (پہن - ڈال) (۱۱) صفت (۱۲) کینہ - اونٹے ذات کا (۱۳) بد نصیب
 بد منت (۱۴) جھیل - کنوس - ٹنگ -
 چندال بال - (۱- ۱۰) (۱۱) ایک بڑا بال جو ماتھے پر نکل آتا ہے اور اسے
 کنوس کہتے ہیں -
 چندال پوکڑی - (۱- ۱۰) (۱۱) چند مسدول کا گردہ جو جمع ہو کر فتنہ و فساد
 برپا کریں -
 چندالنی - (پہن - ڈال) (نی) (۱۰) صفت (۱۱) کینی - سہلی - صدن -
 چنداول - (پہن - ڈال) (۱- ۱۰) (۱۱) لشکر کی آخری فوج (۱۲) سنتری -
 پوکدار - پاسبان -
 چندو - (پہن - ڈال) (۱- ۱۰) (۱۱) چاندو - ایک قسم کا نشہ جو اینٹوں پانی میں
 پلکا کر اور تھکے کی طرح پیا جاتا ہے (۱۲) گیند (ق) -
 چندو باز - (۱- ۱۰) (۱۱) چندو بیٹے کا عادی (۱۲) زرد رنگ آدمی -
 چندو دل - (پہن - ڈال) (ق) (۱- ۱۰) (۱۱) گیند -
 چندو دل - (پہن - ڈال) (۱- ۱۰) (۱۱) ایک خوش آواز پرندہ (۱۲) بدصوت
 اور بے ہنگم آدمی (۱۳) ایک زمانہ سواری جسے کہاں اٹھاتے ہیں -
 (۱۴) مٹی کا ایک کھلونا -
 چندری - (پہن - ری) (۱- ۱۰) (۱۱) رنگ رنگ دوپٹ -
 چند - (پہن - رنگ) (۱- ۱۰) (۱۱) ایک قسم کی بیڑ جو کڑی کے موسم میں
 نکلتی ہے (۱۲) کمر کی پک - کرا جھٹکا -
 چندک - (پہن - گت) (ق) (۱- ۱۰) (۱۱) صفت (۱۲) چھین -
 چند کھاؤ - (پہن - کھا) (ق) (۱- ۱۰) (۱۱) فقیر - بیکاری - (۱۲) پرندہ -
 چندک - (پہن - رنگ) (۱- ۱۰) (۱۱) صفت (۱۲) سوزش - جلن -
 چندک - (ف- ۱- ۱۰) (۱۱) ستار کی قسم کا ایک باجہ (۱۲) کوئی چیز جو بیڑھی اور
 جھلی ہوئی ہو (۱۳) بجز (۱۴) ایک قسم کا لنگوٹا جس میں دیاروشن کر کے
 اڑاتے ہیں -
 چندک نواز چندک بجانے والا -
 چندک - (پہن - گت) (۱- ۱۰) (۱۱) صفت (۱۲) اچھا بندرت - توانا -

چنگا ہے مگر شنگا - (۱- مثل) صاحب استطاعت تو ہے مگر بے حد کنایت شاعر ہے -
 چنگاری - (پہن - گت) (۱- ۱۰) (۱۱) صفت (۱۲) آگ کا شرارہ - ایسی بات جو برکت
 کا باعث ہو -
 چنگاری بھڑٹنا - (۱- مادہ) آگ کے چٹول بھڑٹنا -
 چنگاری چھوڑنا (ڈالنا) - (۱- مادہ) ایسی بات کرنا جس سے لوگوں کو رنج
 ہو - فتنہ انگیزی کرنا - آگ لگانا - لڑائی کرنا -
 چنگاریاں چھوڑنا - (۱- مادہ) (۱۱) آگ کے شرارے نکلنا - آگ کی پٹیلیں اٹھنا
 (۱۲) کال بھول ظاہر ہونا - غوغاری برتا -
 چنگال - (پہن - گال) (ف- ۱- ۱۰) (۱۱) درندوں اور شکاری پرندوں کا پنجرہ -
 چنگلی - (پہن - گل) (ف- ۱- ۱۰) (۱۱) آدمی یا جانور کا پنجرہ (۱۲) مٹی - ٹاٹہ -
 چنگل مارنا - (۱- مادہ) پنجرہ مار کر پکڑنا -
 چنگل میں آجانا - تالروں میں آجانا - پھنس جانا -
 چنگنا - (پہن - نا) (۱- ۱۰) (۱۱) پوکڑہ - ٹھنی کا پنجرہ -
 چنگنا - (پہن - نگ) (نا) (۱- ۱۰) (۱۱) ناراض ہونا -
 چنگنا - (پہن - گت) (نا) (ق) (ص) (۱۰) (۱۱) ہوسا -
 چنگھاڑ - (پہن - گھاڑ) (۱- ۱۰) (۱۱) مٹی کی آواز (۱۲) شور و غل (۱۳)
 فریاد و فضاں کی آواز -
 چنگھاڑ مارنا - (۱- مادہ) ہمیب آواز نکلنا - مٹی کا پیننا -
 چنگھاڑنا - (پہن - گھاڑ) (نا) (۱- ۱۰) (۱۱) مٹی کا گرجنا - دھاڑنا (۱۲) مرد کا رونا -
 چنگھوٹیاں - (پہن - گھوٹ) (یاں) (۱- ۱۰) (۱۱) مٹی کے پنجرے یا نئے کیکنے والوں
 کے آڑے بیڑھے عورت -
 چنگلی - (پہن - گت) (ق) (۱- ۱۰) (۱۱) صفت (۱۲) چنگاری -
 چنگلی - (پہن - گت) (۱- ۱۰) (۱۱) صفت (۱۲) چنگاری - آگ کا شرارہ -
 چنگلی ڈالنا - (۱- مادہ) چنگاری ڈالنا -
 چنگلی - (پہن - گت) (۱- ۱۰) (۱۱) صفت (۱۲) چنگلی بھر - چنگلی بھر (۱۳) شہری معمول جو باہر
 سے مال آنے پر لگایا جاتا ہے - ٹیکس -
 چنگلیاں - (پہن - گت) (یاں) (ق) (۱- ۱۰) (۱۱) صفت (۱۲) چنگلی کی جمع - چنگلیاں -
 چنگلیگر - (پہن - گت) (۱- ۱۰) (۱۱) صفت (۱۲) چنگلی رکھنے کا برتن - چنگلوں کی ٹوکری (۱۳)
 خون کا سرپوش (۱۴) روٹیاں رکھنے کا برتن -
 چنگیری - (۱- ۱۰) (۱۱) صفت (۱۲) روٹیوں کی ٹوکری - ایک قسم کی پھیلی ہوئی پیمندی
 والی ٹوکری -
 چنگنا - (پہن - نا) (۱- ۱۰) (۱۱) صفت (۱۲) چنگنا - چھٹنا - پسند کرنا (۱۳) دیوار بنانا -
 روتھار کھنا (۱۴) ترتیب دینا - سلیقہ سے رکھنا (۱۵) نوپنا (۱۶) چنگل -
 دان اٹھانا (۱۷) کپڑے میں چھت ڈالنا -
 چندندہ - (پہن - دن) (۱- ۱۰) (۱۱) صفت (۱۲) پیدہ - فتنہ - چنگا ہوا - اچھے سے اچھا -
 جمع - چندندہ -
 چندنگ - (پہن - رنگ) (۱- ۱۰) (۱۱) صفت (۱۲) پشاب کی سوزش - پشاب کرتے
 وقت کی جلن -
 چند لینا - (پہن - لے) (نا) (۱- ۱۰) (۱۱) صفت (۱۲) انتخاب کر لینا -
 چندوال - (پہن - وال) (۱- ۱۰) (۱۱) صفت (۱۲) چیدہ - چنگا ہوا -

چٹوانا - (پچھن - ۱۰ - نا) (۵ - صفت) بزوانا - اکٹھا کرنا - کھڑانا - تعمیر کرنا۔
 چٹوٹی - (چٹ - ۱۰ - ٹی) (۵ - مٹ) بان کا چونہ رکھنے کی ڈبیا۔
 چٹوز - (چٹ - ۱۰ - ڈ) (۵ - مٹ) سر پھل - مٹس دان - ہالوں کا پتھ جس سے
 کھیاں اڑاتے ہیں۔
 چٹتی - (چٹ - ۱۰ - ٹی) (۵ - مٹ) (۱) سُرُج چھوٹا سا لگ - ریزہ یا قوت (۲)
 چھوٹا دوپٹہ (۳) لا لڑی۔
 چھٹی ٹوٹی - (چٹھن - ۱۰ - ٹی) (۵ - صفت) (۱) بچوں کی زبان، بہت چھوٹی سی۔
 چھٹیا - (چٹھن - ۱۰ - یا) (۵ - صفت) چھوٹی - ذرا سی۔
 چھینا بطخ - (۱۰ - مٹ) ایک قسم کی چھوٹی بطخ۔
 چھینا بیگم - (۱۰ - مٹ) اینون۔
 چھینا گوند - ڈھاک کا گوند۔
 چھیندہ - (چٹھن - ۱۰ - ڈ) (۵ - صفت) (۱) چھید - تختہ - چٹنا ہوا۔
 چھینس - (چٹھن - ۱۰ - ٹی) (۵ - صفت) ایسا - ایسی بات۔

چو پٹ - (۱۰ - صفت) (۱) چاروں دروازے کھلے ہوئے - کھلا ہوا - فران۔
 کٹاؤ - (۲) جاہل مطلق (۳) دیران - بر باد - اندھا۔
 چو پٹ کرنا - (۱ - محاورہ) (۱۱) اٹھانا - دیران کرنا - ٹوٹنا - غارت کرنا - خراب
 کرنا (۲) پڑھا کھا بھلا دینا (۳) بچت کر دینا۔
 چو پڑ - (۱۰ - مٹ) چوسر - زرد بازی پھمسی (۲) چوسر کی بساط جو چار سرادر
 پہنا کر نہ ہوتی ہے - چوسر کا وہ کپڑا جس پر گولیاں رکھتے ہیں۔
 چو پڑ کا بازار - (۱۰ - مٹ) چار راستوں کا بازار - وہ بازار جس کے چاروں
 طرف دکانیں ہوں - چار بازار۔
 چو پڑا - (۱۰ - مٹ) (۱) مربع جگہ جو کٹھے کے چند زمینوں کے بعد بنا دیتے
 ہیں (۲) مربع کنواں یا باڈلی۔
 چو پن - چو پن - (۱۰ - مٹ) (۱) ۵۲ (۲)۔

چو پہر - (۱۰ - مٹ) چار پہر کا - چار پہروں میں یا چار پہروں کے لیے۔
 چو پہل - (۱۰ - مٹ) چار پہلو کا۔
 چو پہلا - (۱۰ - مٹ) ایک قسم کا مربع ڈولا - محاذ جس کو کہا جاتا ہے۔
 چو پھلا - (۱۰ - مٹ) چار پھل کا (موتی جاقق کے لیے استعمال ہوتا ہے)
 چو پھیر - (۱۰ - مٹ) چاروں طرف کا - گردا گردا۔

چو پیٹا - (۱۰ - مٹ) (۱) چار پیٹوں کا (۲) چار پیٹوں کی گاڑی۔
 چو تارا - (۱۰ - مٹ) (۱) چار تارا کا بنا ہوا (۲) ایک قسم کا باجا۔
 چو تالا - (۱۰ - مٹ) (۱) چار تال کا - چار ضرب کا - طبلہ بجانے کا ایک طریق
 (۲) ایک قسم کا گیان۔
 چو تارا - (۱۰ - مٹ) چو تارا - مربع یا مستطیل اونچی بنا ٹی ہوتی جگہ جس پر لوگ
 بیٹھے اٹھتے ہیں۔

چو تہ - (۱۰ - مٹ) چار تہوں کا۔
 چو تہی - (۱۰ - مٹ) ایک قسم کا سوئی بستر جس کو چار تہہ کہتے ہیں۔
 چو تہہ - چار تہہ - چو تہہ - چو تہہ۔
 چو حاشیہ - (۱۰ - مٹ) جس کے چاروں طرف حاشیہ ہو۔
 چو حڈہ - (۱۰ - مٹ) وہ نشان جو چار گوشوں کی زمین طے کی جگہ بنایا جاتا ہے۔
 چو حڈی - (۱۰ - مٹ) چاروں حڈی۔
 چو خانہ - (۱۰ - مٹ) وہ کپڑا جس میں مربع خانے بنے ہوئے ہوں۔
 چو خانی - کبوتروں کی چار خانوں والی کالج۔

چو دانی - (۱۰ - مٹ) کان کا ایک زبور جس میں چار موتی لگے ہوتے ہیں۔
 چو دوس - (۱۰ - مٹ) چاند کی چودھویں تاریخ - ہندی مہینہ کے ہر پانچ
 کی چودھویں تاریخ۔
 چو دہ - (۱۰ - مٹ) چار اوپر دس - ۱۴۔
 چو دہ بدیا - (۱۰ - مٹ) چو دہ علم یعنی چار وید - چھ وید الگ - دھرم۔
 چو دہا - (۱۰ - مٹ) چار دہا۔
 چو دہا بدیا ندھان - (۱۰ - مٹ) چو دہ علوں کا عالم - بڑا بھاری ناضل
 (۲) پختہ کار - تجربہ کار۔

چو دہ خانوادے - سلسلہ صوفیہ کی چو دہ شاخیں جو چار پہروں کے سلسلے
 سے نکل ہیں۔

چ و

چو - (۱۰ - صفت) چار - چار - مرکبات میں بطور سابقہ استعمال ہوتا ہے۔
 چو الیس - چار اوپر چالیس - ۴۴۔
 چو بارا - (۱۰ - مٹ) کوٹھیا - مکان کے اوپر کا وہ کمرہ جس کے چار دروازے
 ہوں یا چاروں طرف کھڑکیاں ہوں۔
 چو بانی - چو طرنی ہوا - چاروں طرف کی ہوا۔
 چو بانی ہوا چلا دو - (۱) نسل - نہایت مثل مندی اور تیار سی سے کوئی تعب انگیز
 قدر کر کے کامیاب ہو جاؤ۔
 چو برسی - (۱۰ - مٹ) مرد کی ایک رسم جو چار سال بعد ہندوؤں میں ادا کی جاتی ہے۔
 چو بھلا - (۱۰ - مٹ) چو بھنے یا انگرکھے کے بھل کے نیچے کا جھنڈ جس میں چار جوڑ ہوتے ہیں۔
 چو بندی - (۱۰ - مٹ) (۱) جانور کے چاروں نعل بانڈھنا - نعل بندی (۲) نراج۔
 چو بندی بانڈھنا - (۱) محاورہ نعل بندی کرنا۔
 چو بندی چوڑا نا - چو بندی کٹنا - (۱) محاورہ مجرم کے ہاتھ پاؤں بانڈھنا۔
 چو مینا کرنا۔
 چو بولا - (۱۰ - مٹ) ہندی گیت - چار مصرعوں کا۔
 چو بیس - (۱) حرف عدد چار اوپر بیس - ۲۴۔
 چو بیسا - (۱) مٹ (۲) چو بیس گاؤں کا پندرہ (۳) ایک قسم کا تویذ جس کو
 چو بیس کا نقش لکھتے ہیں۔
 چو پال - (۱۰ - مٹ) چو پھل کا بگڑا ہوا - بھنگ - نشست گاہ - گاؤں کا
 وہ چٹانیا مکان جس میں لوگ بیٹھے ہیں یا سرفرہرتے ہیں۔
 چو پالا - (۱۰ - مٹ) ایک قسم کا ڈولا - جس کے چاروں پہلو برابر ہوتے ہیں۔
 چو پہلا - ہوا دار ڈولا۔
 چو پالی - چو پالی - (۱۰ - مٹ) چار مصرعوں کی نظم - رباعی۔
 چو پالیہ - (۱۰ - مٹ) چار پاؤں کا مویشی - حیوان مطلق۔

پودہ طبق - (۵-۶-۷) مذ سات طبقے زمین اور سات طبقے زمین۔
 پودہ طبق روشن ہو جانا - (۱-۲-۳) فصل اور فراست بڑھ جانا۔ معلومات زیادہ ہونا۔
 پودہ محصوم - (۵-۶-۷) مذ شیعوں کے فرقہ امامیہ کے نزدیک رسول اکرم حضرت ناطق اور بارہ امام۔

پودہ صواہل - پودہ سے نسبت رکھنے والا۔ پودہ صواہل نبر کا۔
 پودہ صواہل محصوم - (۱-۲) مذ حضرت امام ہمدی۔
 پودہ صویں - (۱-۲) عدد ترتیبی، پودہ سے نسبت رکھنے والی۔
 پودہ صویں رات - (۱-۲) مذ چاند کی وہ رات جس میں چاند پورا ہو جاتا ہے۔ شب ماہ۔

پودہ صویں کا چاند - (۱-۲) مذ (۱) پور۔ ماہ کامل۔ ماہ تمام (۲) نہایت ملبہوت۔
 پودہ صیر - چاروں طرف - چاروں اطراف (ق)
 پورا سی - (۱) چار اور پراسی - (۲) ۸۴ (۳) ایک قسم کا زیور۔ جہاں (۴) گلنگر مڑوں کا راجہ۔ بیٹوں کی گردن میں ڈالا جاتا ہے۔

پورا سی جھوٹا - (۵-۶) مذ (۱) ہندوؤں کے عقیدے میں مرنے کے بعد۔
 پورا سی لاکھ قابول میں جانا، آداگون کے چکرتیں پڑنا۔ یکے کی سزا پانا۔
 پورا سیاسی - (۵-۶) مذ (۱) پورا سی برس کا۔ ہشتاد و چار سالہ (۲) برہمنوں کی ایک قوم۔

پورا تو سے - چار اُپر زتے - ۹۴۔
 پورا ٹا - (۱) مذ وہ جگہ جہاں سے چار راستے نکلنے ہوں۔
 پورا رہے میں - (۱) تابع فعل، سب کے سامنے۔ کھلم کھلا بیچ بازار۔ سربازار۔
 پورس - (۱) صفت، (۲) صواب، (۳) مزاج پورک۔

پورسانا - (۱) صفت، ہوا کرنا۔ پور کرنا۔ مسلح کرنا۔
 پورسانی - (۱) صفت، ہوا دی۔ برابری۔
 پورسی - (۱) صفت، ترکھانوں کا ایک اوزار۔

پورنگ - (۱) مذ (۲) وہ چیز جس پر تلواریں کا ہاتھ صاف کریں (۳) ایک دار میں توار سے چار ٹکڑے کرنا۔ توار کا دار۔ توار کا ہاتھ۔
 پورنگ کاٹنا - (۱) مذ (۲) توار کے ایک ہاتھ میں چار ٹکڑے کرنا۔
 پوریا تو - (۵-۶) عدد، پورا تو سے - ۹۴ (ق)
 پورسٹھ - پورسٹھ - چار اُپر ساٹھ - ۶۴۔

پورسمر - (۱) مذ (۲) زربازی پورسمری - چار گوشہ (۳) بساط جس پر گویں لگی جاتی ہیں
 پورسمر بازو - (۱) مذ (۲) پورسمر کا کھلاڑی۔ زربازو۔
 پوٹکا - (۱) اگلے چار دانتوں کی ٹی (۲) مزاج پورسمر۔ سنگ مرمر کی مزاج پورسمر (۳) پکانے اور کھانے کا مقام (۴) چار کسان چتریں جو باہم بیوستہ اور برابر کی ہوں (۵) ایک قسم کا مونا پتھر جس سے مکان کا فرش بناتے ہیں (۶) ایک قسم کا برتن (۷) ایک قسم کا پوٹکا برتن کرنا - (۱) مذ (۲) پکانے کھانے کی جگہ کو تیار کرنا۔ کھانے پینے کے برتنوں کو کھانا

پوٹکدن - چاروں طرف (ق)۔
 پوٹکڑی - (۱) صفت، (۲) ہرن کی تلواریں۔ زقند۔ چھلانگ (۳) چار گھوڑوں کی گلیں (۴) ایک زبرد (۵) حد حدت (۶) ایک قسم کی چار چیزیں (۷) گلے کا ایک زیور۔
 پوٹکڑی بھرنانا - (۱) مذ (۲) ہرن یا گھوڑے کا اچھلنا۔ کوٹنا۔ تلواریں مارنا۔

پوٹکڑی بھول جانا - (۱) مذ (۲) عاودہ، صفت پٹ جانا۔ گھبرا جانا۔ ہوش نہ رہنا۔
 پوکس - (۱) صفت، چاروں طرف سے خبردار۔ ہوکتا - (۲) وہ شخص جو اپنے کام میں ہوشیار ہو (۳) قول میں پورا۔ ٹھیک۔

پوکس رہنا - (۱) مذ (۲) خبردار رہنا۔ ہر طرف سے ہوشیار رہنا۔
 پوکسی - (۱) صفت، ہوشیاری۔ بھنبانی۔ خبرداری۔
 پوکتا - (۱) صفت، ہوشیار۔ خبردار۔ بیدار۔ مغز۔ باخبر۔

پوکتا ہونا - (۱) مذ (۲) ہوشیار ہونا۔ بیدار ہونا (۳) بھڑکنا۔ بدکن تیز ہونا۔
 پوکور - پوکون - پوکوتا - (۱) صفت، (۲) مزاج پورس (۳) نہایت موٹا آدمی۔
 پوکھٹ - (۱) صفت، دروازہ کی چار کھڑکیاں جس میں پٹ لگانے جاتے ہیں۔
 پوکھٹ نہ چھانکنا - (۱) مذ (۲) کسی نہ آنا۔ کسی کے گھرنے جانا۔
 پوکھٹا - آئینہ دار گھر۔ وہ چار کھڑکیاں جن میں آئینہ بڑا جاتا ہے۔ تصویر یا قطعہ وغیرہ کا فریم۔

پوکھونٹ - (۱) مذ (۲) چاروں طرف (۳) دنیا۔ عالم (۴) ہر طرف۔ ہر سمت۔
 پوکھونٹا - (۱) صفت، چار گوشہ۔ چار پہلو۔ مربع۔
 پوکھوگڈ - (۱) مذ (۲) وہ جگہ جہاں چار گڈوں کی حدیں ملیں (۳) چار کنگڑوں کا گھٹا۔
 پوکھڑی - بانس کی پتی چھڑکیوں کا چوکوشہ اگر جس سے پرندے پکڑتے ہیں۔

پوکگرد - (۱) مذ، چاروں طرف۔
 پوکگلا - (۵-۶) صفت، چار پکھڑی کا پھول۔
 پوکگنا - (۱) صفت، چار چند۔
 پوکگشیا - (۱) صفت، (۲) چار گڈوں والی (۳) ایک قسم کی ٹپنی جس کے چار گوشے ہوتے ہیں (۴) ترک گھوڑا۔

پوکگھڑا - (۱) چار خانوں کا سونے چاندی یا تانے وغیرہ کا کبس جس میں الہیگی وغیرہ رکھے ہیں (۲) پتوں کے کھینے کا ایک کبس (۳) ساچن کی آرائش کی ٹھیلیاں جو ایک ایک ٹٹی پر چار چار میوؤں وغیرہ سے بھری ہوتی رکھی جاتی ہیں (۴) سفید بڑی الہیگی۔

پولاددا - (۱) مذ، ایک کتوں جس میں چار رسیاں پڑتی ہیں۔
 پولٹرا - (۱) مذ، گلے کا ایک ہار جس میں چار ٹیاں ہوتی ہیں۔
 پولماس - پولماسا - (۱) مذ، برسات کے چار پھینے۔ برسات۔
 پولکھ - (۱) مذ، چار بتی کا پیراں۔ وہ پیراں جس کے چاروں طرف بتیاں روشن کی جائیں۔ چار رخ والی۔

پولکھ جھلانا - (۱) مذ (۲) منت کا پوکھا چران جھلانا۔ صدقہ یا نیاز کا چران جھلانا۔

پولکھا - (۱) چار منڈ کا (۲) چار بتی کا چران (۳) پٹے کا وہ ہاتھ جو چاروں طرف اس طرح پھرایا جائے کہ کسی طرف سے حریت قابو نہ پائے (۴) وہ پھلکا باز جو ایکلا چار کو جواب دے۔
 پولکھی - (۱) صفت، (۲) پولکھا کی تائینٹ (۳) ہندوؤں کی ایک دیوی

پولکھن - (۱) صفت، ایک درخت کا بیج۔
 پولکھن لڑنا - (۱) مذ (۲) حریت سے چاروں طرف لڑنا (۳) کسی آدمی کی بات کا جواب دینا۔
 پولکھن لڑا - (۵-۶) صفت، چار منڈ کا مکان۔

چوٹیا۔ (۱- مذ) ایک قسم کی سزا جس میں چار پٹیس لگا کر عزم کے ہاتھ پاؤں رسیوں سے ان کے ساتھ بانڈھ دیئے جاتے تھے۔
چوٹیا کرنا۔ (۱- محاورہ) چت یا اذیتوں سے پرچاروں کے ہاتھ پاؤں رسیوں سے بانڈھ کر سزا دینا۔

چوٹیس۔ (۱- عدد) چار اوپر تیس۔ ۳۴۔
چوٹسٹ۔ (۱- عدد) چار اوپر ساٹھ۔ ۴۳۔
چوٹتر۔ (۱- عدد) چار اوپر ستر۔ ۷۴۔
چوٹھٹا۔ (۱- مذ) (۱) چوک (۲) وہ بازار جس کے چاروں طرف دکانیں ہوں چوٹھرا۔ (۱- صفت) چار تہوں کا۔

چوڑ۔ (ن- صفت) شرط اگر۔
چوگڑا کعبہ بر فیض دیکھا مانند مسلمانی۔ (ن- فعل) جس سے زیادہ کی جائے اگر وہی زیادتی کسے قواس موح پر کہتے ہیں۔

چوڑا۔ (ن- ۱- مذ) (۱) خوشبو کی ایک چیز جو مشک۔ مندل۔ دمنان۔ اور منیز طاکر بناتے ہیں (۲) پانی کی سوت (۳) بھیسیگی دال کا چھلکا۔

چوڑا چندن۔ ایک قسم کا کبوتر۔
چوڑا۔ (ن- ۱- مذ) (۱) گھنڈ اور تاش کا وہ ورق جس پر چار نشان ہوں (۲) چار چیزوں کا ڈھیر۔

چوڑانا۔ (ن- ۱- مذ) (۱) مس (۲) چٹکانا۔ چوڑانا۔
چوڑاؤ۔ (ن- ۱- مذ) (۱) رساؤ۔ پٹکاؤ۔ پٹکیدی (۲) قند و شکر کا شیرہ۔

چوب۔ (ن- ۱- مذ) (۱) کڑی۔ مارتی کڑی (۲) شامیانہ یا ڈیرے کی کڑی (۳) ڈھول وغیرہ بجانے کی کڑی۔ لاٹھی۔ پھڑی۔
چوب بھینی۔ (ن- ۱- مذ) کڑی کی قسم کی ایک خوشبودار دوا۔
چوب دار۔ (ن- ۱- مذ) نقیب۔ حصار دار۔ وہ نوکر جو سونے یا پانڈی کا خول پرٹھا ہوا سالے کر امیروں کے آگے آگے جھٹاتا ہے۔
چوب دستی۔ (ن- ۱- مذ) ہاتھ کی کڑی۔ پھڑی۔

چوہا۔ (ن- ۱- مذ) چار دیدوں کا عالم برہمن۔ برہمنوں کی ایک قوم جو بہت کھانے میں مشہور ہے۔
چوبے گئے تھے چھتے ہونے دو بے ہو آئے۔ (۱) جب کوئی شخص کسی فائدے کی امید پر کہیں جائے لیکن اٹاگرہ کا بھی کھو آئے تو کہتے ہیں۔

چوہا۔ (۱- مذ) (۱) سینگ۔ گھوٹا۔ کیل (۲) بیٹھے پاؤں جن میں سیرہ وغیرہ لگا کر شادی میں بیٹھے ہیں۔ شکرانہ۔

چوہچوہ۔ (ن- ۱- مذ) (۱) چاہ پتر۔ چوٹا حوض۔ گندے پانی کا گڑھا۔
چوہنی۔ (ن- ۱- مذ) (۱) کڑی کا بنا ہوا۔

چوہنی دار نقش و نگار۔ (ن- ۱- صفت) کڑی پر کھدے ہونے پیل بوٹے کڑی پر کھدائی کا کام۔
چوہیس۔ (ن- ۱- صفت) (۱) کڑی کا۔
چوپ۔ (ن- ۱- مذ) بندوبست۔

چوپان۔ (ن- ۱- مذ) چرواہا۔ گڈریا۔ پاسبان۔
چوپانی۔ (ن- ۱- مذ) (۱) چرواہے کا کام۔
چوپانی کی چھپی۔ (ن- ۱- مذ) (۱) چھپی۔ (۲) چھپی۔ (۳) چھپی۔ (۴) چھپی۔ (۵) چھپی۔ (۶) چھپی۔

چوڑت۔ (۱- ۱- مذ) (۱) چوڑت۔ عورت کا اذام نہانی۔
چوڑت۔ (۱- ۱- مذ) (۱) چوڑت۔ عورت کا اذام نہانی۔

چوڑت۔ (۱- ۱- مذ) (۱) چوڑت۔ عورت کا اذام نہانی۔
چوڑت۔ (۱- ۱- مذ) (۱) چوڑت۔ عورت کا اذام نہانی۔

چوڑت۔ (۱- ۱- مذ) (۱) چوڑت۔ عورت کا اذام نہانی۔
چوڑت۔ (۱- ۱- مذ) (۱) چوڑت۔ عورت کا اذام نہانی۔

چوڑت۔ (۱- ۱- مذ) (۱) چوڑت۔ عورت کا اذام نہانی۔
چوڑت۔ (۱- ۱- مذ) (۱) چوڑت۔ عورت کا اذام نہانی۔

چوڑت۔ (۱- ۱- مذ) (۱) چوڑت۔ عورت کا اذام نہانی۔
چوڑت۔ (۱- ۱- مذ) (۱) چوڑت۔ عورت کا اذام نہانی۔

چوڑت۔ (۱- ۱- مذ) (۱) چوڑت۔ عورت کا اذام نہانی۔
چوڑت۔ (۱- ۱- مذ) (۱) چوڑت۔ عورت کا اذام نہانی۔

چوڑت۔ (۱- ۱- مذ) (۱) چوڑت۔ عورت کا اذام نہانی۔
چوڑت۔ (۱- ۱- مذ) (۱) چوڑت۔ عورت کا اذام نہانی۔

چوڑت۔ (۱- ۱- مذ) (۱) چوڑت۔ عورت کا اذام نہانی۔
چوڑت۔ (۱- ۱- مذ) (۱) چوڑت۔ عورت کا اذام نہانی۔

چوڑت۔ (۱- ۱- مذ) (۱) چوڑت۔ عورت کا اذام نہانی۔
چوڑت۔ (۱- ۱- مذ) (۱) چوڑت۔ عورت کا اذام نہانی۔

چوڑت۔ (۱- ۱- مذ) (۱) چوڑت۔ عورت کا اذام نہانی۔
چوڑت۔ (۱- ۱- مذ) (۱) چوڑت۔ عورت کا اذام نہانی۔

چوڑت۔ (۱- ۱- مذ) (۱) چوڑت۔ عورت کا اذام نہانی۔
چوڑت۔ (۱- ۱- مذ) (۱) چوڑت۔ عورت کا اذام نہانی۔

چوڑت۔ (۱- ۱- مذ) (۱) چوڑت۔ عورت کا اذام نہانی۔
چوڑت۔ (۱- ۱- مذ) (۱) چوڑت۔ عورت کا اذام نہانی۔

جو کام خواب کرے۔

چوٹ - (۱-۵) - ۱۔ مٹ (۱۱) ضرب۔ مار (۲) ڈکھ۔ تکلیف (۳) حرب۔ حملہ۔ (۴) طعن۔ تشین (۵) عشق و محبت کا صدمہ (۶) خواہش۔ آرزو (۷) جوڑ۔ متقابل (۸) داڑ۔ گھات (۹) نقصان۔ ضرر۔

چوٹ آنا - (۱-۱۰) - (۱) محاورہ (۲) ضرب آنا (۳) صدمہ پہنچنا طعن پہنچنا۔ طعن تشین ہونا۔ چوٹ اٹھنا۔ (۱-۱۱) - (۱) لگی ہوئی ضرب کا ظاہر ہونا (۲) ڈکھ کا دوبارہ ظاہر ہونا۔

چوٹ اٹھانا - (۱-۱۲) - (۱) محاورہ (۲) ضرب برداشت کرنا (۳) صدمہ سہنا۔

چوٹ بچانا - (۱-۱۳) - (۱) محاورہ (۲) ضرب خالی دینا۔ حریف کی ضرب کو اپنے اوپر نہ آنے دینا۔

چوٹ پر چوٹ پڑنا - (۱-۱۴) - (۱) محاورہ (۲) صدمے پر صدمہ پہنچنا۔ ضرب کے بعد ضرب لگانا۔

چوٹ پڑنا - (۱-۱۵) - (۱) محاورہ (۲) ضرب پہنچنا (۳) صدمہ پہنچنا۔ دھکا لگانا۔

چوٹ پھیٹ - چوٹ چھینٹ - (۱-۱۶) - (۱) مٹ (۲) ضرب۔ زخم۔ صدمہ۔

چوٹ پیدا کرنا - (۱-۱۷) - (۱) محاورہ (۲) کسی کے بد متقابل دوسرا بہ پہنچانا۔

چوٹ چلنا - (۱-۱۸) - (۱) محاورہ (۲) وار چلنا۔ حملہ ہونا (۳) آواز لگانا۔ طنز کرنا (۴) دوسریوں کا لڑنا۔ داؤں کرنا۔

چوٹ خالی جانا - (۱-۱۹) - (۱) محاورہ (۲) وار خالی جانا۔ نشانہ چوکنا۔

چوٹ ڈھنسا - (۱-۲۰) - (۱) محاورہ (۲) اس مقام پر در در ہونا جہاں چوٹ لگی ہو۔

چوٹ ٹکنا - (۱-۲۱) - (۱) محاورہ (۲) حملہ کرنا۔ ضرب لگانا۔

چوٹ سہنا - (۱-۲۲) - (۱) محاورہ (۲) ضرب برداشت کرنا۔

چوٹ کرنا - (۱-۲۳) - (۱) محاورہ (۲) کاٹنا۔ ڈسنا۔ ضرب پہنچانا (۳) حریف پر وار کرنا حملہ کرنا (۴) داؤں کرنا۔ دھوکا کرنا۔ طعن دینا۔ طنز کرنا۔

چوٹ کھانا - (۱-۲۴) - (۱) محاورہ (۲) زخم کھانا۔ زخمی ہونا۔ مار کھانا۔ صدمہ اٹھانا۔

نقصان اٹھانا۔

چوٹ لگنا - (۱-۲۵) - (۱) محاورہ (۲) صدمہ پہنچنا۔ ضرب لگانا۔ رنج پہنچنا۔

چوٹ لگی پہاڑ کی، توڑیں گھر کی رسل - (۱-۲۶) - (۱) مثل (۲) زبردست حریف سے بس نہیں چلے تو بیوی پر غصہ نکالنا۔

چوٹالنا - (۱-۲۷) - (۱) محاورہ (۲) مٹ (۳) کوٹنا۔ ضرب لگانا۔

چوٹنا - (۱-۲۸) - (۱) محاورہ (۲) چور۔ اٹھانی گیرا۔

چوٹنی - (۱-۲۹) - (۱) محاورہ (۲) چور عورت۔

چوٹنی کتیا جلیبیوں کی رکھوالی - (۱-۳۰) - (۱) مثل (۲) کسی خاتون کے سپرد امانت اور دیانت کا کام کرنا۔

چوٹنی والا - (۱-۳۱) - (۱) محاورہ (۲) بد ذات۔

چوٹی - (۱-۳۲) - (۱) محاورہ (۲) مٹ (۳) بوڑھا۔ سر کے بال جو موٹے سے پھوڑے

دینے جاتے ہیں (۴) عورتوں کے گندے موٹے سر کے بال (۵) دو چند بال جو بچوں کے سر پر بطور نذر چھوڑ دیتے ہیں (۶) پہاڑ کی سب سے اونچی جگہ۔

تذکرہ (۷) وہ بڑے بڑے لوگوں کے سر پر ابھرنے والے (۸) عروج (۹) کسنگرہ۔

چوٹی دینا - (۱-۳۳) - (۱) محاورہ (۲) مغلوب ہونا۔ بیجوری ہونا۔

چوٹی رکھنا - (۱-۳۴) - (۱) محاورہ (۲) سر پر منت کے بال رکھنا۔

چوٹی کا - (۱-۳۵) - (۱) محاورہ (۲) اول درجہ کا۔ چیدہ۔ چٹنا ہونا۔

چوٹی کترنا - (۱-۳۶) - (۱) محاورہ (۲) زیر کرنا۔ عاجز کرنا۔

چوٹی کٹ - (۱-۳۷) - (۱) محاورہ (۲) غلام۔ جو شخص قابو میں ہو۔

چوٹی کترنا چوٹی گوندھنا - (۱-۳۸) - (۱) محاورہ (۲) بال گوندھنا۔ بال سنوارنا۔

چوٹی کی بات - (۱-۳۹) - (۱) محاورہ (۲) نہایت عمدہ بات۔ اعلیٰ درجے کی بات۔

چوٹی والا - (۱-۴۰) - (۱) محاورہ (۲) ہمزاد۔ سایہ۔ بلا۔

چوٹی لٹھ ہونا - (۱-۴۱) - (۱) محاورہ (۲) قابو اور اختیار ہونا۔

چوچ - (۱-۴۲) - (۱) محاورہ (۲) انوکھا (۳) نفاسٹ۔ نزاکت (۴) حسن و خوبصورتی

(۵) صفت۔ گن (۶) تیز فہمی (۷) شرارت۔ شوخی۔ مکر۔ عیاری۔

چالاک (۸) آرزو۔ تمنا۔

چوچی - (۱-۴۳) - (۱) محاورہ (۲) عجیب۔ انوکھا۔

چوچ - (۱-۴۴) - (۱) محاورہ (۲) چھلکا۔ کھال۔ چمڑا (۳) میوے کا وہ حصہ جو کھایا نہ

جائے (۴) آدھا کھانا یا پھل (۵) تازہ کھانا (۶) تازہ پھل (۷) ناریل (۸) کیلا

(۹) دار چینی۔

چوچک - (۱-۴۵) - (۱) محاورہ (۲) دار چینی۔

چوچڑ - (۱-۴۶) - (۱) محاورہ (۲) بیوقوف (۳) کم دودھ دینے والی گائے۔

چوچلا - چوچلا - (۱-۴۷) - (۱) محاورہ (۲) چوچ۔ چلا۔ (۳) تازہ کھانا یا پھل (۴) تازہ کھانا (۵) ناریل (۶) کیلا

تازہ کھانا یا پھل۔ لڑ۔ پیار۔

چوچلا رکھنا - (۱-۴۸) - (۱) محاورہ (۲) تازہ کرنا۔ نخر کرنا (۳) بخت بتانا۔

چوچل مانی - (۱-۴۹) - (۱) محاورہ (۲) نخرے پٹی (۳) تازہ کرنا۔ نخر کرنا۔ (۴) تازہ کرنا۔

چوچل لانا - (۱-۵۰) - (۱) محاورہ (۲) نخرے پٹی (۳) تازہ کرنا۔ نخر کرنا۔ (۴) تازہ کرنا۔

چوچی - (۱-۵۱) - (۱) محاورہ (۲) چھاتی۔ چھتی۔

چوڈنا - (۱-۵۲) - (۱) محاورہ (۲) چھاتی۔ چھتی۔

چوڈھر - (۱-۵۳) - (۱) محاورہ (۲) چھاتی۔ چھتی۔

چوڈھرات - (۱-۵۴) - (۱) محاورہ (۲) چھاتی۔ چھتی۔

سرداری۔ چوڈھری کا حق یا نیس۔

چوڈھری - (۱-۵۵) - (۱) محاورہ (۲) چھاتی۔ چھتی۔

کا سردار۔ میر محمد (۳) زمینداروں کا ایک خطاب۔

چوڈھل - (۱-۵۶) - (۱) محاورہ (۲) چھاتی۔ چھتی۔

چور - (۱-۵۷) - (۱) محاورہ (۲) چھاتی۔ چھتی۔

والا (۳) نامور۔ زخم کے اندر کا حصہ جو اچھا ہونے سے باقی رہ جائے

(۴) خینہ درز۔ پوشیدہ سوراخ (۵) وہ سیندی جو ہندی لگانے کے

بعد چھوٹ جائے (۶) بدگمانی۔ برائی (۷) اندیشہ۔ خوف خطر (۸) گنجد

بازوں کی اصطلاح میں وہ پتاجے کھلاڑی سے چھپائے رکھتے ہیں (۹) (صفت) خینہ۔ پوشیدہ۔

چور انعام - (۱-۵۸) - (۱) محاورہ (۲) چھاتی۔ چھتی۔

چور اور چتر - (۱-۵۹) - (۱) محاورہ (۲) چھاتی۔ چھتی۔

چور بازاری - (۱-۶۰) - (۱) محاورہ (۲) چھاتی۔ چھتی۔

چور بالو - (۱-۶۱) - (۱) محاورہ (۲) چھاتی۔ چھتی۔

چور بدن - (۱-۶۲) - (۱) محاورہ (۲) چھاتی۔ چھتی۔

چور بن کرنا - (۱-۶۳) - (۱) محاورہ (۲) چھاتی۔ چھتی۔

چور پٹھنا - بدگمانی ہو نا۔ خوف ہونا۔ بُرائی ہونا۔

چور پانی - (۱) وہ پانی جو دریا کے کنارے پر یا خشک تہ میں ریت کھود کر نکالا جائے۔

چور پر مور پڑنا - (۱) عاودہ، چور کے گھر میں خود ہی چوری ہونا۔ خشک ٹھکانا ہونا۔

چور پڑنا - (۱) عاودہ، (۱) چوروں کا کسی کے گھر میں اُترنا (۲) ناسور پڑنا۔

(۳) ہندی لگانے سے کچھ بگڑ جھوٹ جانا۔

چور پھرا - (۱) مذ، (۱) خینہ پھرا، پوشیدہ پاسانی (۲) حق، ہرا دل۔

چور پیٹ - (۱) مذ، وہ پیٹ جس کا محل عرصہ تک دکھائی نہ دے۔

چور پیٹا - (۱) مذ، پیسا جو خاک میں گر کر مشکل سے پایا جاتا ہے۔

چور تھانگ - (۱) مذ، وہ شخص جو چوری کا مال لیتا ہو۔

چور جاتے رہے کہ اندھیاری - (۱) مثل، نہ چور ہی دنیا سے غائب ہوئے نہ تاریکی ہی بتی جانے گی جب اندھیری آنے لگی چور آسودہ ہوں گے بدکار مرنے پا کر پھر بدکاری کرتا ہے۔

چور جانے چور کی سار - (۱) مثل، چور کو چوری پہچان سکتا ہے۔

چور کا حال سو میرا حال - (۱) متولہ، اپنی صفائی ظاہر کرنے کے لیے کہا جاتا ہے۔

چور چرا دے اور گردن ہلا دے - (۱) مثل، بڑا کام کر کے نگر جانے والے کے متعلق بولتے ہیں۔

چور چکار - (۱) مذ، پھر، چکا۔ بد ساش۔ گرہ کٹ۔

چور چوری سے جاتا ہے ایرا پھیری سے نہیں جاتا - (۱) مثل، عادت چھوٹنے پر بھی کچھ نہ بچھ اُتر جاتا ہے۔ بڑی عادت نہیں جاتی۔

چور خانہ - (۱) مذ، (۱) مندو پتر کا پوشیدہ خانہ (۲) بجزے کے اندر کا خانہ جو دوسرے خانے میں ہو (۳) خلوت خانہ۔

چور دروازہ - (۱) مذ، گھر کا وہ راستہ جو عام لوگوں کو معلوم نہ ہو۔

چور دوج - (۱) مذ، (تواری سے کیلئے والوں کی اصطلاح) حریف کا میدان میں آکر آگے پیچھے ہٹانا اور تواری اور دجال کو اُپر لے جا کر سر ہیٹ پر دار کرنا۔

چور راستہ - (۱) مذ، غیر متعارف راستہ۔ پوشیدہ راستہ۔

چور زمین - (۱) مثل، دلدل۔ دھساؤ۔

چور سے بچے چوری کر ساه سے بچے تیرا گھر ٹا - (۱) مثل، اس شخص کی نسبت بولتے ہیں جو خودی نقصان کرانے اور خودی بھردہ بنے۔

چور کا بھائی گھٹے گھٹا - (۱) مثل، جب کوئی شخص جب دار کی طرف داری کرتا ہے تو اس کی نسبت بولتے ہیں۔ بد کا ساتھی بد۔

چور کا جی کھتا - (۱) متولہ، پھر دوسری بات پر ڈر جاتا ہے۔

چور کا شاہد چراخ - (۱) مثل، جب کوئی راز دار کسی کا بھید کھول دے۔ اس موقع پر بولتے ہیں۔

چور کا مال سب کوئی کھائے چور کی جان اکارت جائے - (۱) مثل، بڑے کو سوا منرے کچھ نا مذہ نہیں ملتا۔ چور کے مال میں کئی جھتہ دار ہوتے رہیں، مگر سزا میں کوئی جھتہ دار نہیں ہوتا۔

چور چھری - (۱) مثل، وہ ٹکڑے جو بد ساشوں اور چوروں کی سزا فرسانی پر پیشہ

طور سے کرے۔ خینہ پڑیس۔

چور کو چور ہی سوجھتا ہے - (۱) مثل، جیسے کویتسا ہی پہچانتا ہے۔ دل را دلی سے شامد۔ ہر شخص دوسرے کو اپنا ہی جیسا سمجھتا ہے۔

چور کو گھر تک پہنچانا - (۱) عاودہ، (۱) سالا کو انتہا تک پہنچانا۔

چور کھڑکی - (۱) مثل، بد مشجدہ در پیچہ۔

چور کی داڑھی میں تشکا - (۱) مثل، چور خود اپنے چوکتا ہی سے پہچانا جاتا ہے۔

چور کی ماں کو بھی میں سر دے کر روئی ہے - (۱) مثل، بڑے کا بھیدی

دل ہی دل میں گھٹتا ہے۔ چور کی ماں اپنے رنچ پر چپ کر بھراس نکال لیتی ہے۔ کسی کے سامنے کیلے۔

چور کے پیر کہاں - (۱) مثل، چور میں استتال نہیں ہوتا۔ ذرا کھٹکا پاکر بھاگ کھڑا ہوتا ہے۔

چور کے گھر مور - چور کے گھر میں مور پڑے - (۱) مثل، اس موقع پر بولتے

ہیں جب کوئی شخص چاک کو بھی دھوکا دے یا کوئی شخص کسی سے کوئی چیز اُٹا لانے اور اس چیز کو اس سے کوئی دوسرا بھٹ لے جائے۔

چور گلی - (۱) مثل، (۱) وہ گلی جو ایک طرف سے بند ہو (۲) با جامہ کی مانی۔

چور محل - (۱) وہ بیوی جو بیابستان ہو (۲) وہ محل جہاں امیر لوگوں کی

آشنائیں رہیں۔

چور منڈلی - (۱) مثل، (۱) بچوں کا ایک کھیل جس میں وہ ایک لنگڑا کو گھر کے

کسی ڈھیر میں چھپا دیتے ہیں جو اسے ڈھونڈ پائے۔ وہ سارا گوبر لے جاتا ہے۔

چور ٹونگ - چور اُرد - (۱) مثل، وہ پھوٹے پھوٹے سنت ٹونگ یا اُرد

کے دانے جو گٹنے سے رہ جاتے ہیں۔

چور چٹیا - (۱) مذ، وہ دکاندار جو چوروں سے مال خریدے۔

چور - (۱) صفت (۱) ریزہ ریزہ۔ ٹکڑے ٹکڑے (۲) بد مت۔ متوالا۔ سرشار۔

چور ہو جانا - چور چور ہو جانا - (۱) عاودہ، (۱) کسی چیز کا ٹوٹ کر ریزہ ریزہ

ہو جانا (۲) خشک جانا۔

چورا - (پور۔ را) (۱) مذ، بڑا درہ۔ ریزہ۔

چورا کرنا - (۱) عاودہ، (۱) ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔ پینا (۲) خوب مارنا۔ زد و کوب کرنا۔

چورا کاری - (پور۔ نا۔ کا۔ ری) (۱) صفت، چوری۔ چوری کا شہرہ

چورما - (پور۔ ما) (۱) مذ، ٹیلہ۔

چورگن - (پور۔ گن) (۱) مذ، (۱) ایک قسم کا سنوف جو بدنہی کے لیے بنایا

جاتا ہے (۲) چٹکی۔ چٹکی۔

چور نا - (پور۔ نا) (۱) صفت، ٹکڑے ٹکڑے کر کے ٹکے ٹکے یا کسی رقیق چیز میں ڈبونا۔

چوری - (پور۔ ری) (۱) صفت، (۱) سرتق۔ دزدی۔ دوسرے کا مال چھپ

کر حاصل کرنا۔

چوری اور پترائی - ایک تو چوری کرنا دوسرے میل بازی دکھانا۔

چوری اور دسر، سینتہ زوری - (۱) مثل، اپنے قصور پر نادم نہ ہو کر اُٹلے

سرکش کرنا۔

چوری جانا - (۱) عاودہ، سرتق ہو جانا۔

چوری چوری - (۱) مثل، فعل، چھپے چھپے۔ در پردہ۔

چوڑی چھپے - (۱) تاریخ فعلی (درپردہ) خیر طور پر - چلے سے - بے خبری میں -
 چوڑی سے - (۱) چپکار (۲) چلنے سے - بے خبری سے -
 چوڑی کا کپڑا لالھیوں (ڈالٹوں) کے گز - (۱) مش - چوڑی کے مال
 ک قدر نہیں ہوتی وہ اسے ادا کرنے سے بچ ڈالتا ہے -
 چوڑی کا گڑبھا ہوتا ہے - (۱) مش - صفت کا مال سب کو پیارا ہوتا ہے -
 چوڑی کا مال - (۱) مذ - پیرایا ہوا مال - مال مسرتہ -
 چوڑی لگانا - (۱) محاورہ - چوڑی کا الزام لگانا -
 چوڑ - (۱) مذ - نقصان -

چوڑا - (چوڑا) - (۱) صفت - فراخ - کشادہ - وسیع - چکلا -
 چوڑا - (چوڑا) - (۱) مذ - (۱) موشی کے گوہر پشاپ وغیرہ سے بھیگی
 ہونی - کچھ (۲) گھیلا - بھیسا ہوا (۳) کلائی سے کہنی تک - لاکھ - کالج -
 ماسوںے چاندی کی چوڑیاں (۴) بھنگلی -
 چوڑا کر دینا - (۱) محاورہ - گھیلا کر دینا - بھگودینا -
 چوڑان - (چوڑان) - (۱) مذ - مش - چوڑائی - عرض - فراخی - وسعت - کشادگی -
 چوڑانا - (چوڑانا) - (۱) مذ - صفت - پھیلاتا - فراخ کرنا - کشادہ کرنا -
 چوڑاؤ - (چوڑاؤ) - (۱) مذ - پاٹ - پھیلاؤ -
 چوڑائی - (چوڑائی) - (۱) مذ - مش - چوڑان - عرض - فراخی - وسعت - کشادگی
 چوڑھا - (چوڑھا) - (۱) مذ - (۱) خاکروب - بھنگلی (۲) چمار - کینہ - رزیل -
 چوڑھی - (چوڑھی) - (۱) مذ - مش - خاکروب - بھنگلی - چوڑھے کی بیوی -
 چوڑی - (چوڑی) - (۱) مذ - مش - جنتری -

چوڑی - (چوڑی) - (۱) مذ - مش - (۱) لاکھ - کالج یا سونے چاندی کا حلقہ
 جو عورتیں ہاتھ میں پہنتی ہیں (۲) وہ بیچ بوسے پڑے سے میں کٹا ہو -
 چوڑی دار یا چجامر - وہ تنگ یا پٹھانہ جس کی موہیاں لمبی ہونے سے ٹٹوں
 پر سلوٹیں پڑ جاتی ہیں -
 چوڑیاں بڑھانا - (۱) محاورہ - چوڑیاں اُتارنا - چوڑیاں اُتار کر رکھنا -
 چوڑیاں پہنانا - (۱) محاورہ - (۱) ہاتھوں میں چوڑیاں ڈالنا - حورت کی شادی کرنا -
 چوڑیاں پہننا - (۱) محاورہ - (۱) ہاتھوں میں چوڑیاں ڈالنا (۲) نامردی
 اختیار کرنا (۳) شادی کرنا -
 چوڑیاں ٹھنڈی کرنا - (۱) محاورہ - (۱) چوڑیاں توڑنا (۲) خاندن کے سر
 جانے پر چوڑیاں اُتار کر سناگ اُتارنا -

چوڑیا - (چوڑیا) - (۱) مذ - ایک قسم کا دھاری دار کپڑا -
 چوڑہ - (چوڑہ) - (۱) مذ - (۱) مُرنی کا پتہ - پٹھا (۲) نو عمر - نو سال لڑکا
 جوان لڑکی -
 چوڑہ باز - (۱) صفت - (۱) مذ - وہ کسی جو نوجوانوں سے زیادہ رجعت رکھے -
 چوسا - (چوسا) - (۱) مذ - وہ آلہ جس سے بڑا دہ کرتے ہیں - ریتی -
 چوسار - (چوسار) - (۱) صفت - ہوشیار -
 چوساراں - (چوساراں) - (۱) مذ - چوسار کی جمع - ہوشیار لوگ -
 چوساری - (چوساری) - (۱) مذ - مش - خبر داری - چوسکی -
 چوس ڈالنا - (۱) صفت - (۱) مذ - اس قدر چوس لینا کہ خشک ہو جائے (۲)
 چوری طرح جذب کر لینا -

چوسری - (چوسری) - (۱) مذ - (۱) صفت - (۱) مذ - (۱) صفت - (۱) مذ - (۱) صفت -
 چوسنا - (چوسنا) - (۱) صفت - (۱) صفت - (۱) صفت - (۱) صفت -
 نکالنا - جذب کرنا - دودھ پینا - پوڑنا - عرق نکالنا -
 چوسنی - (چوسنی) - (۱) صفت - (۱) صفت - (۱) صفت - (۱) صفت -
 پلانے کی شیشی - چینی -

چوغمہ - (چوغمہ) - (۱) مذ - (۱) صفت - (۱) صفت - (۱) صفت - (۱) صفت -
 چوک - (چوک) - (۱) صفت - (۱) صفت - (۱) صفت - (۱) صفت -
 جس کے چار راستے ہوں (۲) سامنے کے چار دانٹوں کی لڑیاں -

چوک - (چوک) - (۱) صفت - (۱) صفت - (۱) صفت - (۱) صفت -
 چوک جانا - (۱) محاورہ - بھول جانا - سہو کرنا -
 چوکا - (۱) صفت - (۱) صفت - (۱) صفت - (۱) صفت -

چوکر - (چوکر) - (۱) صفت - (۱) صفت - (۱) صفت - (۱) صفت -
 چوگنا - (چوگنا) - (۱) صفت - (۱) صفت - (۱) صفت - (۱) صفت -
 نشانہ نہ لگانا -

چوکھا - (چوکھا) - (۱) صفت - (۱) صفت - (۱) صفت - (۱) صفت -
 خوب (۳) عمدہ - نادر - پسندیدہ -

چوکھاٹ - (چوکھاٹ) - (۱) صفت - (۱) صفت - (۱) صفت - (۱) صفت -
 چوکھے - (چوکھے) - (۱) صفت - (۱) صفت - (۱) صفت - (۱) صفت -

چوکی - (چوکی) - (۱) صفت - (۱) صفت - (۱) صفت - (۱) صفت -
 سیشن - پڑاؤ (۲) باری (۳) خدمت - سیوا - نوکری (۴) نیاز - نذر
 فاتحہ (۵) موکل - جاؤ - لڑنا (۶) قوالوں کا گروہ (۷) گلے کا ایک
 مٹائی زبور (۱۰) چھوٹا خانہ (۱۱) حصول وصول کرنے کی جگہ (۱۲)
 پانخانہ کا چھوٹا تخت - کمرہ -

چوکی بٹھانا - (۱) محاورہ - (۱) پیر بٹھانا - لگبانی کرنا (۲) جاود کرنا - موکل بٹھانا -
 چوکی بھرنانا - (۱) باری باری پہرہ دینا (۲) گھر میں یا کسی قبر پر قوالی کرنا (۳)
 دیوی دیوتا کے استھان پر بھینٹ پڑھانا (۴) فوجندی جموات کو
 قبرستان میں جا کر دُعا مانگنا -

چوکی پر جانا - (۱) محاورہ - (۱) حقانے جانا (۲) صحت خانہ میں جانا -
 چوکی پر لوٹنا نہ رکھواؤں - (۱) محاورہ - سخاوت ظاہر کرنے کے لیے کہتی
 ہیں کہ اس سے کوئی ادنیٰ کام بھی نہ کرواؤں -

چوکی پہرا - (۱) مذ - گارد - پہرا - پہرے کی باری -
 چوکی جانا - (۱) محاورہ - کسی یا ذاتی حورت کا ختیجہ پر جانا -
 چوکی خانہ - (۱) مذ - وہ مکان جہاں امیروں کے درباری اور حاضر باشی
 واسے لوگ رہتے ہیں -

چوکی دار - (۱) مذ - پاسبان - محافظ - نگہبان -
 چوکیدار - (چوکیدار) - (۱) صفت - (۱) صفت - (۱) صفت - (۱) صفت -
 چوکیداری -

چوکی دیشا - (۱) محاورہ - (۱) صفت - (۱) صفت - (۱) صفت - (۱) صفت -
 کسی درگاہ پر جا کر قوالی کرنا -

چوکیا سہاگا۔ (چو۔ ک۔ یا۔ س۔ نا۔ گا۔) ۱۔ ۵۔ مذ) ایک قسم کا عمدہ سہاگا۔
 چوکیداری۔ (چو۔ کی۔ دا۔ ری۔) (اُڑ۔ ا۔ مٹ) (۱) پاسانی پنجابی (۲) کھیلنا
 چوکی مالا۔ (۱) مذ) وہ شخص جو معمول دیکھے بیز چوری پھیلے مال لے جانے معمول پڑ
 چوکی مارنا۔ (۱) محاورہ) معمول پہنچنے کی چوری کرنا۔
 چوگ۔ (چو۔ گا۔) ۱۔ ۵۔ مذ) پرندوں کی غذا۔ دانہ۔
 چوگان۔ (چو۔ گان۔) (ن۔ ف۔ ۱۔) مذ) (۱) گیند کا بلا۔ گلی ڈنڈا۔ چوب۔ نثارہ۔
 (۲) گھوڑے پر چڑھ کر گیند کا کھیل چولو۔
 چوگانی۔ (چو۔ گانی۔) ۱۔ ۵۔ مذ) گھوڑا جو چوگان بازی میں خوب دوڑے۔
 چوگرا۔ (چو۔ گرا۔) (ا۔ ن۔ ۱۔) مذ) خوشگوش۔
 چوگول۔ (۱۔ ۵۔ مٹ) (۱) لکڑی کا وہ سرا جو دوسری لکڑی میں داخل کیا جائے
 (۲) لکڑی کا چھید جس میں دوسری لکڑی لگائی جائے (۳) وہ چھید
 جس میں کوڑا پھرتا ہے۔
 چوگول بیٹھ جانا (بیٹھنا)۔ (۱) محاورہ) بدعمل مانا۔ زاپٹے کا سلطان ہونا یعنی جونا۔
 چوگولیں ڈھیلی کرنا۔ مارتے مارتے ٹھکر کس نکال دینا۔ بیٹ مارنا۔
 چوگولیں ڈھیلی ہو جانا۔ (۱) محاورہ) (۱) زیادہ کام کرنے یا زیادہ دوڑنے سے
 معمول ہو جانا (۲) سست ہو جانا۔ تنگ جانا۔ بجز بیٹھ ڈھیلے ہو جانا۔
 چوگول۔ (ن۔ ۱۔) مذ) چلو۔ ایک گھونٹ۔ بڑھ۔
 چولا۔ (چو۔ لا۔) ۱۔ ۵۔ مذ) (۱) جسم۔ قالب (۲) ایک قسم کی پوشاک جو دلہن کو
 رات کے روز پہناتے ہیں (۳) چولی۔ انگر کے کا بلانی رستہ۔
 چولا بدلنا۔ (۱) محاورہ) قالب بدلنا۔ ایک قالب سے دوسرے قالب میں جانا۔
 مڈن کا ایک جسم سے دوسرے جسم میں مڑائی کرنا۔ وضع قطع میں فرق آنا۔
 چولا چھوڑنا۔ (۱) محاورہ) قالب چھوڑنا۔ مر جانا۔
 چولائی۔ (چو۔ لائی۔) ۱۔ ۵۔ مٹ) ایک قسم کا ساگ۔
 چولھا۔ (چو۔ لھا۔) ۱۔ ۵۔ مذ) ویگدان۔ آتش دان۔ آگ رہنے کی جگہ۔
 چولھا (چھو نکٹا) چھونکٹا۔ (۱) محاورہ) (تعارف یا غصے سے) اپنے ہاتھ سے
 پکانا۔ آگ بھلانا۔ چولھا گرم کرنا۔
 چولھے آگ نہ کھڑے پانی۔ (۱) مثل) ہنایت افلاس۔ کھانے پینے کا
 کوئی سامان نہ ہونا۔
 چولھے چلی تیری سبھی کام پکی۔ (۱) مثل) اس عورت کی نسبت بولتے ہیں جو
 بیٹ سگر ہو۔ ہر کام جانتی ہو۔
 چولھے سے نکلا کڑا ہی میں گرا۔ (۱) مثل) ایک سبب سے چھوٹا دوسری
 میں بڑا۔ آسان سے گرا کھجور میں اٹکا۔
 چولھے کی تیری تو سے کی میری۔ (۱) مثل) اچھی چیز اپنے لیے بُری
 دوسروں کے لیے۔
 چولھے میں (بہڑے) جاٹے۔ (۱) مثل) آگ لگے۔ خاک میں ملے۔
 ہمیں اس سے سروکار نہیں۔ بلا سے۔
 چولی۔ (۱۔ ۵۔ مٹ) انگر کے کے دامن سے اُپر کا حصہ۔ اُپر کے دھڑکا
 حصہ۔ انگیا۔ ایک قسم کی کڑی جو عورتیں پہنتی ہیں۔
 چولی دامن کا ساتھ۔ (۱) مثل) لازم و ملزوم۔ لازمی ساتھ۔ وہ دو آدمی
 یا چیزیں جو ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ رہیں۔

چولی مسکنا۔ چولی شکل جانا۔ (۱) محاورہ) چولی کا ندر پڑنے سے چاک ہو جانا۔
 چولیا۔ (چول۔ یا۔) (ن۔ ۱۔) مذ) چاہنے۔
 چوٹا۔ (چوٹا۔ یا۔) ۱۔ ۵۔ مذ) برس۔ پیار۔
 چوٹا چائی۔ برس و کنار۔ ناز و نیاز۔ اختلاط۔
 چوٹتے ہی گال کاٹا۔ (۱) مثل) ابتدا ہی میں نقصان پہنچانا۔
 چوٹم چاٹ کے چھوڑنا۔ (۱) محاورہ) (۱) اپنے قابل اور تصرف سے باہر چیز
 کو برس دے کر اس کے خیال سے باز آنا (۲) کام نکال کے چھوڑنا۔
 چوٹک۔ (چوٹ۔ تک۔) (ن۔ ۱۔) مذ) ہن ماتم۔
 چوٹنا۔ (چوٹ۔ نا۔) (م۔ م۔) ۱) برس لینا۔ پیار کرنا۔ چمکانا۔
 چوٹنا چائنا۔ (۱) چوٹا چائی کرنا۔ پیار کرنا (۲) خوشامد در آمد کرنا۔ تو چتر
 کرنا (۳) تعظیم کرنا۔
 چوٹوں۔ (ن۔ ۱) جب (۲) مانند (۳) کس طرح (۴) کس لیے۔
 چوٹو۔ (حوت شرط) کیونکہ۔ اس لیے۔
 چوٹن و چرا۔ (ن۔ حوت استہقام) جملہ بہانہ۔ اگر گرجت بخت نکرا۔
 چوٹن۔ (۱۔ ۵۔ مٹ) آنا۔ آرد۔
 چوٹن کا حاکم بھی بُرا ہوتا ہے۔ (۱) مثل) ادا سے حاکم سے بھی ڈرنا چاہیے۔
 چوٹن کر ڈالنا۔ (۱) محاورہ) پس ڈالنا۔ آنا کر دینا۔
 چوٹن ہو جانا۔ (۱) محاورہ) گل جانا۔ آنا ہو جانا۔
 چوٹن۔ (۱۔ ۵۔ مٹ) (۱) خفیت آواز جو کسی چیز سے نکلے۔ آواز گوز (۲)
 چڑھے وغیرہ کی آواز۔
 چوٹوں۔ (۱) چوٹوں کی آواز (۲) گاڑی کے چلنے کی آواز۔ چوٹوں کا
 ایک کھلوتا ہو دبانے سے چوٹوں کرتا ہے۔
 چوٹوں کا مرتبہ۔ (۱) مذ) منتقت چیزوں کا مجموعہ۔
 چوٹوں نہ کرنا۔ (۱) محاورہ) اُن نہ کرنا۔ انکار نہ کرنا۔ غاموش رہنا۔
 چوٹوں۔ (چوٹ۔ وٹن۔) ۱۔ ۵۔ صفت) چار اُپر پچاس۔ ۵۳۔
 چوٹا۔ (چوٹ۔ نا۔) (ن۔ م۔) ۱) چوٹا۔ ٹیکنا۔
 چوٹا۔ (چوٹ۔ نا۔) ۱۔ ۵۔ صفت) (۱) پھل کا پک کر آپ سے آپ
 زمین پر گر پڑنا (۲) جھین کا خون آنا۔
 چوٹا۔ (چوٹ۔ نا۔) ۱۔ ۵۔ مذ) (۱) مثل) سفیدی۔ وہ پتھر یا لٹکر جو ہلایا جائے
 (۲) (صفت) تیز۔ تند۔ صرف کٹھاس کی تیزی پر استعمل ہے۔
 چوٹا چوٹنا ہوتا۔ (۱) محاورہ) کپڑے یا لکڑی کا پڑنا ہو کر پارہ پارہ ہو جانا۔
 چوٹنا بچ۔ ایک قسم کا مضبوط چوٹنا جو معمولی بونے میں ملا کر پتھر کے کام میں
 لاتے ہیں۔
 چوٹنا لگانا۔ (۱) محاورہ) (۱) بان میں چوٹنا لگانا (۲) رک دینا منسوب کرنا چکودیا۔
 چوٹنپ۔ (۱۔ ۵۔ مٹ) (۱) شوق۔ چاڑ۔ خواہش۔ اُننگ (۲) بڑھاوا (۳)
 سونے کی کیل جو دولت میں لگائی جاتی ہے (۴) ضد۔ چٹ۔
 چوٹنپ دینا۔ (۱) محاورہ) بڑھاوا دینا۔ کسی کام پر نامادہ کرنا مستعد کرنا۔
 چوٹنپنا۔ (چوٹ۔ نپ۔) (ن۔ ۱) (ن۔ م۔) (چٹنا۔
 چوٹنچ۔ (۱۔ ۵۔ مٹ) (۱) منقاد۔ پرندوں کا مٹ (۲) رک۔ ہرا (۳)
 زبان یا بیسی۔

چونچ سنھالو۔ (۱۔ متول) زبان روکو۔ ہد زبانی نہ کرو۔
 چونچ مارنا۔ (۱۔ عاورد) (۱) شوٹک مارنا (۲) یہودہ بکنا۔ واہی تباہی
 زبان سے نکالنا۔
 چونچال۔ (چوں۔ چال) (۱۔ صفت) ہوشیار۔ جالاک۔ مستعد۔
 چونچیاننا۔ (چوں۔ یاننا) (۱۔ صفت) شوٹک مارنا۔
 چونڈلا۔ (چوں۔ ڈلا) (۱۔ صفت) یہودہ گو۔ ناپختہ باتیں کرنے والا۔
 چونڈھ۔ (۱۔ صفت) چندھیا ہٹ۔ خیرگاہیہ۔
 چونڈھر۔ (چوں۔ ڈھر) (چوں۔ ڈھر) (۱۔ صفت) چاروں طرف۔
 چونڈھیانا۔ (۱۔ صفت) چمک دار چیز دیکھ کر آنکھیں خیرہ ہو جانا۔
 چونڈھیل۔ (چوں۔ ڈھیل) (۱۔ صفت) چاروں طرف۔
 چونڈھی۔ (چوں۔ ڈھی) (۱۔ صفت) ڈھوکا۔ فریب۔
 چونڈھیاں۔ (چوں۔ ڈھیاں) (۱۔ صفت) تریکیں۔
 چونڈھرا۔ (چوں۔ ڈھرا) (۱۔ صفت) سر کے لمبے بالوں کا چٹھا جو عورتیں سر پر
 لاکر باندھ لیتی ہیں (۲) ہرنوں کی چھوٹی گھٹی (۳) کپا کٹواں۔
 چونڈھا دھوب میں سفید نہیں کیا۔ (۱۔ صفت) نا تجربہ کار نہیں۔
 چونڈھے پر ڈولا اٹھلنا۔ (۱۔ عاورد) (۱) بڑھاپے میں ڈولی پر سوار ہونا
 (۲) دوسری عورت کے خاندان سے آشنا ہونا۔
 چونڈھل۔ (چوں۔ ڈھل) (۱۔ صفت) ہوادار کی طرح کی ایک سواری جسے
 اٹھانے کے لیے دو بانس لگائے جاتے ہیں۔
 چونڈھڑ۔ (چوں۔ ڈھڑ) (۱۔ صفت) رنگ رنگ کا دنگا ہوا دیو پٹہ۔ چٹری۔
 چونڈھڑی۔ (چوں۔ ڈھڑی) (۱۔ صفت) ایک خاص ترتیب سے کئی
 رنگوں میں رنگا ہوا دیو پٹہ۔
 چونڈھڑی۔ (چوں۔ ڈھڑی) (۱۔ صفت) مورچیل۔
 چونڈھ۔ (۱۔ صفت) دشت۔ بھگ۔ پوکنا کائنات۔
 چونڈھک اٹھنا۔ (۱۔ عاورد) (۱) دشت گھبرا کر جاگ اٹھنا۔ سوتے سوتے
 اٹھیں بڑھنا (۲) پوکنا ہو جانا۔ بدک جانا۔ گھبرا جانا۔
 چونڈھک پڑنا۔ (۱۔ عاورد) ایک ایک خواب سے بیدار ہونا۔ غفلت سے
 ہوشیار ہونا۔
 چونڈھکنا۔ (چوں۔ ڈھکنا) (۱۔ صفت) سوتے سوتے جاگ بڑھنا (۲) بھگنا (۳)
 غفلت سے ہوشیار ہونا۔ جاگ بیدار ہونا۔ پوکنا ہونا۔ گھبرا نا۔ بگا بگا ہونا۔ جیت ہونا
 چونڈھیل۔ (چوں۔ ڈھیل) (۱۔ صفت) (۱) ڈھوکا (۲) بھگنے والا (۳) ڈرنے
 یا بھگنے والا جانور یا آدمی۔
 چونڈھنگا۔ (چوں۔ ڈھنگا) (۱۔ صفت) (۱) خوشامد۔ چا پوسی (۲) بانس کا ٹی۔ ٹی
 (۳) اٹھتے۔ بے وقوف۔
 چونڈھنگے باز۔ (۱۔ صفت) وہ شخص جو چرب زبانی سے دوسروں کی چیزیں لے لے۔
 چونڈھنگا۔ (چوں۔ ڈھنگا) (۱۔ صفت) (۱) بوقت دار بانس کا ٹکڑا جس کے اندر کاغذ
 رکھتے ہیں۔
 چونڈھنی۔ (چوں۔ ڈھنی) (۱۔ صفت) (۱) روپے کا پوٹا حصہ۔ چار آنے۔
 چاندی بانس کا وہ سکہ جو پوٹھا ٹی روپے میں پیلے۔
 چونڈھنی۔ (چوں۔ ڈھنی) (۱۔ صفت) (۱) دال کا بڑا۔ وہ ٹکڑا موٹا آٹا جو دال دلتے

میں لکھا ہے۔
 چونڈھنی بھوسی لکھا کر گز کرنا۔ (۱۔ عاورد) نہایت تنگی سے اوقات بسر کرنا۔
 چونڈھنی بھی لے لے مجھے بھی سے کھا ڈ۔ (۱۔ صفت) ادا کرنے آدمی بھی بڑوں کی
 برابری کرنے لگا۔ یاقوت سے بڑھ کر دھونے کرنے کی جگہ بولتے ہیں۔
 چونڈھنے والیاں۔ (۱۔ صفت) (۱) مٹ (۲) ایک قسم کی ڈوٹیاں جو پتھر پیدا ہونے
 پر ناپختہ گانے آتی ہیں۔
 چونڈھنا۔ (چوں۔ ڈھنا) (۱۔ صفت) (۱) موش۔ نیولے سے ملتا جلتا ایک چھوٹا
 جانور۔ موسا (۲) ناک کا سونکا ہوا میل۔
 چونڈھنا بل میں سماتا نہیں دم سے باندھا چھاج۔ (۱۔ صفت) اپنی توکر
 ہوتی نہیں دوسروں کا ہونہ سر پر اٹھاتے ہیں۔
 چونڈھنا بل کی کاشکار ہے۔ (۱۔ صفت) کمزور کو زبردست قابو میں کر لیتا ہے۔
 چونڈھنا کٹی۔ (۱۔ صفت) ایک گھاس جس کی پتیاں چوبے کے کان کی مانند ہوتی ہیں
 چونڈھنے والی۔ (۱۔ صفت) (۱) مٹ (۲) بڑھاپے پر لڑنے کا پتھر۔
 چونڈھنے سے کٹھے۔ (۱۔ صفت) نہایت پیلے پیلے کٹھے۔
 چونڈھنے کا پتھر بھی نہیں۔ (۱۔ صفت) بانس کے بے اولاد ہے۔
 چونڈھنے کا بل ڈھونڈتے پھرو گے۔ (۱۔ صفت) امن کی جگہ تلاش کرو گے۔
 بھاگنے کا راستہ نہیں ملے گا۔
 چونڈھنے کا جہاں ہی ڈھونڈتا ہے۔ (۱۔ صفت) ہر شخص اپنی اصل پر جاتا ہے۔
 چوبے کے ہاتھ ہلدی لگی وہ بھی پینساری بن بیٹھا۔ (۱۔ صفت) کم عزت
 خودی سی بڑھی بل جانے پر اترانے لگتا ہے۔
 چونڈھنے مار۔ (۱۔ صفت) ایک پرند جو چوبے پر کھلے جاتا ہے۔
 چونڈھنا۔ (چوں۔ ڈھنا) (۱۔ صفت) سورج ہنسی راہجوتوں کی ایک گوت۔
 چونڈھنا۔ (چوں۔ ڈھنا) (۱۔ صفت) خاکروب۔ چمار۔ کینہ۔
 چونڈھنی۔ (چوں۔ ڈھنی) (۱۔ صفت) خاکروب۔ بھگن۔ بھگن کی بیوی۔ چوڑھی۔
 چونڈھنی۔ (چوں۔ ڈھنی) (۱۔ صفت) (۱) چوڑھی۔ (۲) چوڑھی۔ (۳) چوڑھی۔
 چونڈھنی سے دانت۔ (۱۔ صفت) چھوٹے چھوٹے دانت۔
 چونڈھنی۔ (چوں۔ ڈھنی) (۱۔ صفت) (۱) دیا وچیرہ کے پاس کا وہ گڑھا جس میں
 پانی بھر بھر کر بھر جائے (۲) دال کا پھلکا۔

چ

چہ۔ (۱۔ صفت) استہنام و استہباب کیا۔
 چہ خوش چرا نباشد۔ (۱۔ صفت) کلہ طرز کیوں نہیں۔ اچھے رہے۔ کیا کہتا ہے۔
 چہ شک اسی قابل ہو۔
 چہ داند بوز نہ لذات ادرک۔ (۱۔ صفت) بندر کیا جانے ادرک کا
 مزہ۔ ناقدر شناس اچھی ہنجر کی قدر نہیں جانتا۔
 چہ دلا دراست دزدے کہ بکف چراغ دارد۔ (۱۔ صفت) وہ چور
 رکھتا دلیر ہے جو ہاتھ میں چراغ لے لے۔ چوری اور سینہ زوری۔
 چہ کند بے نوا ہمیں دارد۔ (۱۔ صفت) کسی چیز کو پیش کرتے وقت اٹھا

کے طور پر کہتے ہیں۔

چہرہ معنی دارد۔ (ن۔ متولد) کیا سبب ہے۔ کیا وجہ ہے۔ کیا باعث ہے۔
چہرہ میگوئیال۔ (ن۔ ۱۔ مٹا) قیاس آرائیاں۔ رائے زنی۔ گپ شپ۔
چہرہ نسبت فاک را با عالم پاک۔ (ن۔ ش) چھوٹے کاڑھے سے کیا ستا ہے۔

چہرہ۔ (ن۔ ۱۔ مذ) (۱) چاہ کا مختلف۔ کنواں۔ گڑھا (۲) پل کے
دووں سرے۔

چہرہ بچہ۔ (۱) کنوئیں کے مشابہ چہرہ گڑھا (۲) چوٹا حوض۔ دیکھیے چرچہ۔

چہار۔ (ج۔ ۱۔ ۲) (۱) مذ) ایک قسم کا چھوٹا آبی پرندہ۔

چہار۔ (ج۔ ۱۔ ۲) (۱) مذ) چار۔ ۳۔

چہار چند۔ چوکن۔

چہار دہ۔ (ن۔ ۱۔ عدد) چودہ۔

چہار دہم۔ (ن۔ عدد) چودھواں۔ چودھویں۔

چہار سو۔ (ن۔ تابع فعل) چاروں طرف۔

چہار شنبہ۔ (ن۔ ۱۔ مذ) بدھ کا دن۔

چہارم۔ (ج۔ ۱۔ ۲) (۱) مذ) چوتھا۔ چوتھائی۔

چہنچہن۔ (پڑ۔ تا۔ پن) (ن۔ ۱۔ مذ) (۱) خواہش۔ بخت (۲) ارادہ۔

چہنچہا۔ (پڑ۔ ج۔ ۱۔ ۲) (۱) مذ) خوش الحانی۔ پرندوں کا خوشی میں آکر ہونا۔

چہنچوں میں گزرتا۔ (۱) محاورہ) پیش و عشرت میں بسر ہونا۔

چہنچہا۔ (پڑ۔ ج۔ ۱۔ ۲) (۱) مذ) نہایت شوخ اور سرخ رنگ۔ چمکیلا رنگ۔

چہنچاتا رنگ۔ (پڑ۔ ج۔ ۱۔ ۲) (۱) مذ) سرخ شوخ رنگ۔

پتوں کا جوہن پر آنا۔

چہمانا۔ (پڑ۔ ج۔ ۱۔ ۲) (۱) مذ) (۱) نغمہ سرائی کرنا۔ چمکنا (۲) خوشی میں

آکر ہونا (۳) پرندوں کا گانا۔

چہنچہانا۔ (پڑ۔ ج۔ ۱۔ ۲) (۱) مذ) (۱) صوفی پنک۔ شوخی برسانا۔

چہنچہا ہٹ۔ (پڑ۔ ج۔ ۱۔ ۲) (۱) مذ) (۱) مٹا۔ (۲) نغمہ سرائی۔ نواسی۔ پرندوں کا

چہرہ۔ (پڑ۔ ج۔ ۱۔ ۲) (۱) مذ) (۱) صورت۔ گھڑا (۲) سامنے کا رخ۔ ہنر

(۳) ٹیلہ۔ خود دھال۔

چہرہ آٹا رانا۔ (۱) محاورہ) نظردھال کا نقشہ لینا۔ مکتب لینا۔

چہرہ اتر جانا (اُترنا)۔ (۱) محاورہ) چہرہ بے رونق ہو جانا۔ اُداس ہونا۔

چہرہ بحال ہونا۔ (۱) محاورہ) بیمار کے چہرے پر صحت کے آثار نمایاں ہونا۔

چہرہ بگاڑنا۔ (۱) محاورہ) صورت مسخ کر دینا۔ بد صورت بنا دینا۔ ایسا مانا

کہ شکل بچانی نہ جائے۔

چہرہ بگڑنا۔ (۱) محاورہ) چہرہ کی شکل بگاڑنا۔

چہرہ بنانا۔ (۱) محاورہ) مُنہ بنانا۔ مُنہ پڑانا۔

چہرہ بھسوکا ہونا۔ (۱) محاورہ) مُنہ سرنج ہونا۔

چہرہ پر تلواریں کھانا۔ (۱) محاورہ) بہادری کرنا۔ تلوار سے مُنہ نہ پھیرنا۔

چہرہ پر ہتھاب ٹھکانا۔ چہرہ پر ہواشیاں اُڑانا۔ (۱) محاورہ) چہرہ کا رنگ

زرد ہو جانا۔ ہٹکا ہٹکا ہو جانا۔ گھرا جانا۔

چہرہ پر دواز۔ (ن۔ صفت) نقاش۔ صورت۔ تصویر کھینچنے والا۔

چہرہ چمکا پڑنا۔ (۱) محاورہ) چہرہ بے رونق ہو جانا۔

چہرہ قمتانا۔ (۱) محاورہ) چہرہ کا گرمی بخار یا غصہ سے سرنج ہو جانا۔

چہرہ چمکانا۔ (۱) محاورہ) چہرہ پر رونق اور جلال معلوم ہونا۔

چہرہ زرد ہو جانا۔ (۱) محاورہ) کمزوری یا بیماری کی وجہ سے مُنہ کا پیلا پڑ

جانا۔ ڈر جانا۔ خوف زدہ ہو جانا۔

چہرہ سے نقاب اٹھانا۔ (۱) محاورہ) مُنہ کھولنا۔ چہرہ ننگا کرنا۔

چہرہ شاہی رو پیسہ۔ (ن۔ صفت) سرکاری سکہ جس پر بادشاہ وقت کا

چہرہ منتسب ہو۔ چہرہ دار رو پیسہ۔

چہرہ کھٹنا۔ (۱) محاورہ) فوکری سے بر طرف ہونا۔

چہرہ کشا۔ (ن۔ صفت) نقاب اٹھانے والا۔ تصویر بنانے والا۔

چہرہ کشائی۔ (ن۔ ۱۔ صفت) مجھے سے نقاب ہٹانے کی رسم۔ مُنہ کھولنا۔

(۲) نقاشی۔ صورتی۔

چہرہ کھٹنا۔ (۱) محاورہ) بھرتی کرنا۔ نئے ملازم کا ٹیلہ کھٹنا۔

چہرہ کھوانا۔ (۱) محاورہ) فوکری کرنا۔ دفتر میں ٹیلہ درج کرانا۔

چہرہ مہرہ۔ (ن۔ ۱۔ صفت) شکل صورت۔ خود دھال۔

چہرہ مہرہ سے ٹھیک (درست) ہونا۔ (۱) محاورہ) خوبصورت ہونا۔

چہرہ نویس۔ ملازموں کا ٹیلہ کھٹنے والا۔

چہرہ ہونا۔ (۱) محاورہ) رجسٹر میں نام لکھا جانا۔ ملازم ہونا۔ بھرتی ہونا۔

دفتر یا فوج میں نام لکھا جانا۔

چہرے پر ہواشیاں اُڑنا۔ (۱) محاورہ) رنگ فق ہو جانا۔ رنگ زرد ہو

جانا (۲) گھرا جانا۔ ہٹکا ہٹکا ہونا۔

چہرے کا رنگ اُڑنا۔ (۱) محاورہ) خوف، رنج، شرم یا غصہ کی وجہ

سے چہرے کا رنگ بدل جانا۔

چہرے کی لینا۔ (۱) محاورہ) مُنہ بنانا۔ مُنہ پڑانا۔ ٹھیک کرنا۔

چہکا۔ (پڑ۔ ج۔ ۱۔ ۲) (۱) مذ) (۱) اینٹوں اور پتھروں وغیرہ کا فرش جو اکثر چیتوں

اور صحنوں وغیرہ میں لگایا جاتا ہے (۲) داغ۔ چرکا (۳) جلن۔ سوزش۔

چہکا (دینا) لگانا۔ (۱) محاورہ) (۱) آگ سے جلادینا۔ لوکا لگا دینا (۲)

اینٹوں کا فرش جمانا۔

چہکا لگنا۔ (۱) محاورہ) آگ سے بدن کا جل جانا۔

چہکار۔ (پڑ۔ کار) (۱) مذ) (۱) پڑیلوں کے بولنے کی آواز۔ چہکا ہٹ۔

چہکارنا۔ (پڑ۔ کار) (۱) مذ) (۱) چمکانا۔ چہکانا۔

چمکانا۔ (ج۔ ۱۔ ۲) (۱) مذ) (۱) اُڑنا۔ (۲) خوش الحانی کرنا۔ نواسی کرنا۔

چمکل۔ (ج۔ ۱۔ ۲) (۱) مذ) (۱) مٹا۔ (۲) سبھی۔ خوش مزاجی۔

چمکل باز۔ (ن۔ صفت) (۱) مذ) ظریف۔ خوش مزاج۔ زندہ دل۔

چمکل۔ (ج۔ ۱۔ ۲) (۱) مذ) (۱) صفت) چالیں۔ ۳۔

چمکل ابدال۔ وہ چالیں فنوس ذکیہ جنہیں خدا نے انتقام عالم کی دیکھ مال

کے لیے مقرر کیا ہے۔

چمکل چران۔ (ن۔ ۱۔ مذ) ایک قسم کا برنجی جھاڑ جس میں چالیں چران پختے ہیں۔

چمکل ستون۔ (ن۔ ۱۔ مذ) ایک قسم کی عمارت جس میں چالیں ستون ہوتے ہیں۔

چمکل قدسی۔ (ن۔ ۱۔ صفت) (۱) مذ) (۱) شگفتا۔ ہوا خوری کرنا۔ تفریح طبع کے واسطے

تھوڑا سا چہرنا۔

چہل کاف - ایک دُعا کا نام جس میں چالیس کاف ہیں۔

چہلا - (چہ - لا) (۱-۵) (۱) وہ زمین جو پانی اور دلدل سے پُر ہو (۲) (صفت) گھیلا (۳) دق [چھلا۔

چھلے کی گھینیس - موٹا آدمی جس کو حرکت کرنا دشوار ہو۔ جہول آدمی۔

چھل پیل - (چہ - پیل - پیل) (۱-۵) (۱) روغن - آبادی (۲) خوشی خرمی - مہی - چھلم - (چہ - لم) (۱) چالیسواں - چالیس سے نسبت رکھنے والا۔

چھل (۱-۵) (۱) چالیسویں کا فاتح اور کھانا (۲) شہدائے کربلا کا چالیسواں۔

چھل - (چہ - لی) (۱-۵) (۱) منٹ (۲) گویش کی پرستی۔

چھنور - (چھن - ور) (۱-۵) (۱) ایک بیماری جس کے سبب بچہ پیٹ میں نہیں ٹھہرتا۔

چھپتا - (چہ - ہی - تا) (۱-۵) (۱) پیارا - عزیز - محبوب۔

چھپتی - (چہ - ہی - تی) (۱-۵) (۱) پیاری - عزیزہ - محبوبہ۔

چھپڑ - (چہ - یڑ) (۱-۵) (۱) لال کی قسم کا ایک چھوٹا سا پرندہ۔

چھیل - (۱-۵) (۱) گھیلا - نڈار۔

چھ

چھ (چھے) - (۱-۵) (۱) پانچ اور ایک - تین کا دگنا (۲) -

چھ (بوندیا) بُندکیا - (۱-۵) (۱) ایک ذہریلا کیر جس کے بدن پر چھ داغ ہوتے ہیں۔

چھ پانچ کرنا - (۱-۵) (۱) باتیں بنانا - شرارت کرنا (۲) حیران ہونا۔

چھ ماہی - (۱-۵) (۱) مُردے کا فاتح اور کھانا جو مرنے کے چھ ماہ بعد یا چھ مہینے ہوتا ہے۔

چھاپ - (۱-۵) (۱) مہر - نقشہ - نشان - علامت - ایڈیشن۔

چھاپ لگانا - (۱-۵) (۱) مہر لگانا - چھاپ لگانا - نقش کرنا۔

چھاپا - (چہ - پا) (۱-۵) (۱) مہر - نقشہ - صورت - تصویر (۲) چھاپنے کا آلہ (۳) شیخون رات کو غنیم پر اچانک حملہ (۴) نقشہ - صورت - تصویر (۵) سا پتھر ڈھالنے کا ظرف (۶) کھلیاں پر چھاپا لگانے کا آلہ (۷) اخبار - پمپی ہوئی چیز۔

چھاپا مارنا - شیخون مارنا - رات کو غنیم پر چھڑ کر قتل عام کرنا۔

چھاپنا - (۱-۵) (۱) طبع کرنا - مہر لگانا - نقش کرنا - چھاپنا لگانا (۲) نشانے کرنا۔

چھاپے خانہ - (۱-۵) (۱) مطبع - پریس۔

چھاپے خانے والا - (۱-۵) (۱) مطبع کا مالک۔

چھاتا - (چھا - تا) (۱-۵) (۱) بھرتی (۲) برٹاسینڈ - جوڈاسینڈ (۳) پتنگ کا سینہ۔

چھاتا بردار فوج - (۱-۵) (۱) فوج - منٹ) پیراشوٹ یا ہوائی بھرتی کے ذریعے اترنے والی فوج (ایگ) (Para Troop)

چھاتم چھاتا - (چھا - تم - چھا - تا) (۱-۵) (۱) سینے کو سینے سے کوٹنا (۲)

چھامیں ایک پتنگ کا دوسرے پتنگ سے لٹنا۔

چھاتی - (چھا - تی) (۱-۵) (۱) منٹ (۲) سینہ - صدر - پستان (۳) جمات - حوصلہ دل (۴) استقلال - مضبوطی (۵) فیاضی - سخاوت۔

چھاتی اُبھار کر چلنا - (۱-۵) (۱) محاورہ (۲) سینہ تان کر چلنا (۳) اتر کر چلنا۔

چھاتی اُبھر آنا (اُبھرتا) - (۱-۵) (۱) محاورہ (۲) لڑکی کے پستانوں کا بڑھنا - بالغ ہونا۔

چھاتی اُمنڈ آنا (اُمنڈتا) - (۱-۵) (۱) محاورہ (۲) دل بھر آنا - غم و رنج کے باعث رونے کو دل چاہنا۔

چھاتی بھر آنا - (۱-۵) (۱) محاورہ (۲) آنسو بھر آنا (۳) چھاتی کا گوشت سے پُر ہونا (۴) رقم آنا - ترس آنا (۵) چھاتی میں مادری محبت کے باعث دُودھ اُتر آنا۔

چھاتی بھر جانا - گھوڑے کے سینے پر دم ہو جانا۔

چھاتی بڑھ جانا - (۱-۵) (۱) محاورہ (۲) خوشی سے حوصلہ بڑھ جانا۔

چھاتی بیٹھ جانا - (۱-۵) (۱) محاورہ (۲) کھانسی یا زکام سے آواز کا بھاری ہو جانا۔

چھاتی بھتر کر لینا - (۱-۵) (۱) محاورہ (۲) سگدل ہو جانا۔

چھاتی پر بال ہونا - (۱-۵) (۱) محاورہ (۲) شہادت اور مردت کا نشان ہونا۔

چھاتی پر پتھر رکھنا - (۱-۵) (۱) محاورہ (۲) سختی اور اختیار کرنا۔ صبر کرنا۔

چھاتی پر پھرتا - (۱-۵) (۱) محاورہ (۲) ہر وقت یاد آنا۔

چھاتی پر پڑھ کر ڈھانی چیلو لہو پینا - (۱-۵) (۱) محاورہ (۲) سخت سزا دینا۔

چھاتی پر چڑھے رہنا - (۱-۵) (۱) محاورہ (۲) سانسے موجود رہنا۔

چھاتی پر دھر کے لے جانا - (۱-۵) (۱) محاورہ (۲) مال و دولت کو اپنے ساتھ لے کر جانا۔

چھاتی پر سانپ (پھرنا) لوٹنا - (۱-۵) (۱) محاورہ (۲) سخت افسوس آنا۔

چھاتی پر سب دھرتا - (۱-۵) (۱) محاورہ (۲) سینے پر بوجھ رکھ دینا (۳) صبر کرنا۔

چھاتی پر کالا بھاڑ ہونا - (۱-۵) (۱) محاورہ (۲) بہت ناگوار ہونا۔

چھاتی پر ٹونگ دلنا - (۱-۵) (۱) محاورہ (۲) رشک دلانا۔ آتش نیرت سے جلانا (۳) عذاب دینا۔ سزا دینا۔

چھاتی پر ہاتھ رکھنا - (۱-۵) (۱) محاورہ (۲) دجوتی کرنا۔ محبت کا اظہار کرنا۔

چھاتی پر ہاتھ دھر کے دیکھو - (۱-۵) (۱) محاورہ (۲) اپنے دل کی حالت سے دوسرے کے دل کی حالت کا اندازہ کرو۔

چھاتی پک جانا - (۱-۵) (۱) محاورہ (۲) چوچی میں زخم آ جانا (۳) دق ہو جانا۔

چھاتی میں دم آ جانا۔

چھاتی پکڑ کر رہ جانا - (۱-۵) (۱) محاورہ (۲) دل میں کس کر رہ جانا۔ دل ہی دل میں غم و افسوس کے کسے بیٹھ رہنا۔

چھاتی پہاڑ ہونا - (۱-۵) (۱) محاورہ (۲) دل سخت ہونا۔ (۳) حوصلہ ہونا۔ جنت ہونا۔

چھاتی پھینٹنا - (۱-۵) (۱) محاورہ (۲) سینے کا شق ہونا۔ (۳) دل پر صدمہ عظیم گزرنے (۴) کسی کی دولت دیکھ کر رشک ہونا۔ حسد ہونا۔

چھاتی پھیسی جانا - (۱-۵) (۱) محاورہ (۲) بے حد صدمہ ہونا۔

چھاتی پیٹنا - (۱- محاورہ) (۱) سینہ کو پی کرنا۔ ماتم کرنا (۲) کسی کی دولت بچھ کر سد کرنا (۳) غصے میں پیٹنا۔
 چھاتی تلے رکھنا - (۱- محاورہ) پاس رکھنا۔ جان کے برابر رکھنا۔ اپنی بہنیں پاس رکھنا۔ مخالفت سے رکھنا۔
 چھاتی ٹھنڈی کرنا - (۱- محاورہ) (۱) دل غرض ہونا (۲) مگھ دینا۔ تسلی دینا (۳) ارمان نکالنا (۴) ٹھنڈ نکالنا۔
 چھاتی ٹھونکنے - (۱- محاورہ) اطمینان کرنا۔ دل مضبوط کرنا۔
 چھاتی چلانا - (۱- محاورہ) (۱) دق کرنا۔ شاننا (۲) رشک دلانا۔
 چھاتی چلنا - (۱) سینہ میں سوزش ہونا (۲) غم یا حسد یا رشک سے دل جلنا۔
 چھاتی چڑھنا - (۱- محاورہ) پستانوں میں دودھ بڑھانا۔ جو بچے کے سر سے یا دودھ پھڑٹانے کے بعد ہوتا ہے۔
 چھاتی چھیننا - چھاتی چھین جانا۔ چھاتی چھینی ہونا۔ سدھوں کے باعث سینہ کا پرداخ اور پاش پاش ہو جانا۔
 چھاتی درکنا - (۱- محاورہ) سینہ شق ہونا۔ سمت سدھ ہونا۔
 چھاتی دھرکنا - (۱- محاورہ) (۱) دل کا پٹنا۔ دل لڑنا (۲) خوف چھانا۔ (۳) دل دکھنا۔ دل پر سدھ گزرنے۔
 چھاتی دینا - بچے کو دودھ پلانا۔
 چھاتی سراہنا - (۱- محاورہ) (۱) بڑ باری اور تمہل کی تعریف کرنا (۲) تحسین و آفرین کرنا۔ شاباش دینا۔
 چھاتی سلگانا - (۱- محاورہ) ستانا۔ دق کرنا (۲) رشک دلانا۔
 چھاتی سے چھڑلنا - (۱- محاورہ) (۱) دل کا بوجھ دور ہونا (۲) بیٹی کا بیابا جانا۔ چھاتی سے نکلنا۔ (۱- محاورہ) جو شربت کے باعث سینہ سے چھٹنا۔
 پیار کرنا۔ گلے سے لگانا۔
 چھاتی کا ابھار - (۱- مذ) بلوغت کے باعث عورت کی چھاتیوں کا اوپر کو ابھارنا چھاتی کا (چھتر) پہناؤ۔ (۱- مذ) (۱) دل کی گرانی۔ بار خاطر (۲) بار تم۔ (۳) جوان بنی بیابھی بیٹی یا رائی بیٹی جس کا خرچ ماں باپ کے سر ہو۔
 چھاتی کا پھوڑا - (۱- مذ) جان کا عذاب۔ دہال جان۔
 چھاتی کا بم - (۱- مذ) (۱) جان قبض کرنے والا۔ خرشتہ موت (۲) ناگوار طبع۔ بار خاطر (۳) وہ ناگوار آدمی جو ہر وقت چھاتی پر موجود ہے۔
 چھاتی کا سودا ہے - (۱- مثل) حوصلے کا کام ہے۔
 چھاتی کرنا - (۱- محاورہ) جرات دکھانا۔ دنیا منی دکھانا۔
 چھاتی کو ٹٹنا - (۱- محاورہ) سینہ کو پی کرنا (۲) کسی کی دولت دیکھ کر ہونٹنا۔
 چھاتی کھول کر ملنا - (۱- محاورہ) فراخ دلی سے ملنا۔ بغیر رنجش ملنا۔
 چھاتی کے کواڑے - (۱- مذ) سینہ کے دونوں پہلو۔
 چھاتی کے کواڑھوٹنا - (۱- محاورہ) (۱) سینہ چاک کرنا (۲) دل کو کدورت سے پاک کرنا۔
 چھاتی گدانا - (۱- محاورہ) عورت کے پستانوں کا ابھرتا شروع ہونا۔
 چھاتی گڑبھر ہو جانا (ہونٹا) - (۱- محاورہ) خوش ہو جانا (۲) حوصلہ بڑھ جانا۔
 چھاتی مسلنا - (۱- محاورہ) عورت کے پستانوں کو مرد کا ہاتھوں سے ملنا۔ ساس کرنا۔
 چھاتی مسوستا - (۱- محاورہ) (۱) اسٹوس کرنا۔ دلی بڑا کر دیا جانا۔ سدھ اٹھانا

(۲) سدھ دینا۔ دل دکھانا۔
 چھاتی میں دودھ اتر آنا - (۱- محاورہ) ماں مدت کے بعد بھی اولاد کو ملے اور وہ اُسے پہچان بھی نہ سکے تو مانتا بتا دیتی ہے کہ یہ تیری اولاد ہے۔
 (۲) دودھ پلانے وقت چھاتیوں میں دودھ اتر آنا۔
 چھاتی نکال کر چلنا - (۱- محاورہ) اگر کو چلنا (۲) سینہ ابھار کر چلنا (۳) عورت کو اپنے پستانوں کی نمائش کرتے ہوئے چلنا۔
 چھاتیاں ابھرنا - (۱- محاورہ) لڑکی میں بلوغت کے آثار پیدا ہونا (۲) پستانوں کا نمودار ہونا۔
 چھانج - (۱- مذ) (۱) نظر پھینکنے کا آلہ (۲) لکھی کے آگے کا وہ حصہ جس کے نیچے کوچان کے پاؤں اور اوپر گھوٹے کی راس رہتی ہے۔
 چھانج بولے تو بولے۔ چھانجی بھی بولی جس میں ستر تھید۔ (۱- مثل) جو خود عیب دار ہے وہ بے عیب کی کیا بڑائی کہے گا۔
 چھانجی ڈاڑھی - بڑی اور کھنی ڈاڑھی۔ (طنز یہ)
 چھانج میں ڈال کر چھیننی میں اتر آنا - (۱- محاورہ) (۱) اٹل کام کرنا۔ کسی کو رٹوا کرنا (۲) بات کا بتکڑ بنانا۔
 چھانجوں برسنا - (۱- محاورہ) کثرت سے بارش ہونا۔ موسلا دھاری نہ برسنا۔
 چھانجوں مانی پڑ گیا - (۱- محاورہ) (۱) بہت سا سینہ برس گیا (۲) نہایت شرمندگی اٹھانا پڑی۔
 چھانچھ - (۱- مذ) (۱) وہ سینہ پانی جو دہی کو بول کر کھن نکالنے کے بعد باقی رہ جاتا ہے۔ لسی (۲) وہ ترش سینہ دودھ جو لکھی گرم کرنے میں نیچے بیٹھ جاتا ہے۔
 چھاڈنا - (۱- محاورہ) (۱) چھٹنا (۲) تھکنا۔ اٹھی کرنا۔
 چھار - (۱- صفت) (۱) جلا دینے والا (۲) تیز۔ چڑچڑا۔ کڑوا (۳) نمکین۔ تیزابی (۴) مٹی کا بڑا ڈھیلا (۵) دق [درخت -
 چھارو - (۱- مذ) چھالا۔ آبلہ۔ پھسولا (۲) ناسعد (۳) تنجال۔ منہ کے چھالے۔ منہ آنا۔
 چھاری - (۱- صفت) سونے پانڈی و دینو کا ڈالا۔
 چھاڑ - (۱- مذ) (۱) دریا کا کنارہ (۲) زمین جو دریا چھوڑے۔ مٹی کا ٹکڑا۔ (۳) درخت (۴) ترک۔ تیگ (۵) چھاڑی۔
 چھاڑ چھٹی - (۱- مذ) پرداڑھا ہادی۔
 چھاڑ چھڑلا - (۱- مذ) ایک پودا۔ بالچڑ۔ سنبل الطیب۔
 چھاڑنی - (۱- محاورہ) (۱) دق [درخت - بہانہ۔
 چھاگ - (۱- صفت) (۱) دودھ دینے کا وقت (۲) دودھ دوہنا (۳) دن کا پہلا کھانا (۴) کھانا جو مزدور لوگ صبح اپنے ساتھ لے جاتے ہیں (۵) بڑے بڑے پرانے جو ڈھن کے گھر سے دھلا گوشادی کے موقع پر پیسے جاتے ہیں۔
 چھاگا - (۱- صفت) بدست۔ مدہوش۔ نشے میں۔
 چھاگل - (۱- صفت) (۱) مٹھ [(۲) چھوٹی مٹی مشک (۳) مٹی کا وہ برتن جس میں سافز پانی بھرتے ہیں (۴) چھانجی۔ پاؤں کا ایک زلیہ۔
 چھال - (۱- صفت) (۱) درخت کے اوپر کا پوست۔ چھلکا۔
 چھالا - (۱- صفت) (۱) آبلہ۔ پھسولا (۲) وہ داغ جو تلوار کے

چھرا - (رہب - را) (۱-۵) مذ (چھوٹا چہتر۔
 چھک - (چھک - پک) (۱-۵) مٹ (پانی کی آواز۔
 چھکا - (چھب - کا) (۱) پانی کا بڑا چھینٹا - تڑپڑا (۲) کبوتر پڑنے کا چھوٹا سا
 جال (۳) ایک زبرد جو عورتیں بالوں میں باندھ کر ماتے پر لٹکاتی ہیں۔
 (۴) پھلانی ہوئی دانگ کا چوڑا ٹکڑا (۵) لہبے کا وہ چوڑا پتڑا جو
 کندھی میں لٹاکر بند کر دیا جاتا ہے۔
 چھکلی - (رہب - ک - لی) (۱-۵) مٹ (۱) ایک دینگنے والا جانور جو اکثر
 دیواروں پر رہتا ہے۔ چلیاس (۲) دہلی تیلی عورت۔
 چھتن - (چھب - پئی) (۱-۵) صف (۱) پھل اور پھاس (۲) (۵۶)
 چھینا - (چھب - نا) (۱-۵) ص (۱) طبع ہونا۔ ٹہر لگنا۔
 چھینا - (چھب - نا) (۱-۵) ص (۱) پہنانا ہونا۔ مخفی ہونا (۲) آنکھ بچانا۔
 (۳) پردہ کرنا۔
 چھپواں - (رہب - واں) (۱-۵) ص (۱) پوشیدہ چھپنے۔
 چھت - (۱-۵) مٹ (۱) مسقف پٹا، ڈوسا، سان (۲) گوشا، بام (۳) چھت گیری۔
 چھت پاشا - (ص - مٹ) چھت پر گڑیاں تھنے اور مٹی وغیرہ ڈالنا۔
 چھٹ ٹیکنا - (۱-۵) ص (۱) چھت چونا۔ چھت سے پانی ٹیکنا۔
 چھت گیری - (۱-۵) مٹ (۱) دھک پڑا جو چھت کے نیچے خاک وغیرہ کے زنگرنے
 کے لیے لگاتے ہیں۔
 چھت لگانا - (۱-۵) ص (۱) چھت کے عرض و طول کے موافق کوئی رنگین یا
 منشن یا کسی قسم کا کپڑا چھت کے نیچے کڑیوں سے ملا کر لگانا۔
 چھتا - (چھت - تا) (۱-۵) مذ (۱) دُور تک پٹا ہوا راستہ۔ مکھٹیوں یا بھڑوں
 وغیرہ کا گھر (۲) گھاس کا پھیلاؤ۔
 چھتا پنا - (چھت - تا - پ - نا) (۱-۵) مٹ (۱) جبر بانی۔
 چھتا را - (چھتا - را) (۱-۵) مذ (۱) وہ درخت جس میں کثرت سے پتے اور
 شاخیں ہوں۔ گھنا درخت۔
 چھتانا - (چھت - تا - نا) (۱-۵) مذ (۱) بھڑوں کا بہت بڑا چھتا۔
 چھتر - (چھت - تر) (۱-۵) مذ (۱) بڑا چھتا۔ ٹم گیرہ (۲) شایانہ (۳) جائے پناہ۔
 چھترانا - (چھت - رانا) (۱-۵) ص (۱) بھینرنا۔
 چھتر او - (چھت - را) (۱-۵) مذ (۱) پرانگہ۔ تتر بتر ہونا۔
 چھتر پتی - (۱-۵) مذ (۱) راجا۔ نواب - والئی ریاست (۲) وہ افسر جس کے سپرد پتہ شاہی ہو۔
 چھتری - (چھت - ری) (۱-۵) مٹ (۱) چھوٹا چھتا (۲) کبوتروں کے بیٹھنے کا
 اڈا (۳) ایک قسم کا گنبد دار عمل (۴) ڈولی کے اوپر کا ٹھٹھ (۵) سر کے
 بڑے اور گھنے بال (۶) ہندوؤں کی ایک قوم کا نام۔
 چھتنا - (۱) ص (۱) پٹنا۔ مارکھانا (۲) ٹوٹنا۔ گھٹنا۔ پٹنا (۳) ہموار کیا جانا۔
 چھتنا - (۱-۵) ص (۱) چھتے کی شکل کا (۲) گھٹنا۔ ہموار۔ برابر۔
 چھتوانا - (۱) ص (۱) پٹوانا۔ مردانا۔
 چھتور - (۱-۵) مذ (۱) گھر۔ مکان۔ عمل۔ نیلگو۔
 چھتورنا - (چھت - تور - نا) (۱-۵) مٹ (۱) چھتر لگانا۔
 چھتوانا - (چھت - یا - نا) (۱-۵) ص (۱) بندوق سے شست باندھنا۔ بندوق کو
 چھانی سے لگانا۔

چھتیس - (چھت - تیس) (۱-۵) ص (۱) چھ اُپر تیس (۲) (۳۶)
 چھتسا - (چھت - تی - سا) (۱-۵) ص (۱) مکار۔ چھتیس مُنہر جاننے والا۔
 چھتیس - (چھت - تی - سی) (۱-۵) ص (۱) ادباش عورت۔ نہایت چالاک
 اور ہوشیار عورت۔
 چھٹ - (۱-۵) ص (۱) حرف استثناء (۲) بجز۔ سوا (۳) چھوٹا ہوا۔ علیحدہ (۴) چھوٹا کا مخف۔
 چھٹ بھینا - (۱-۵) مذ (۱) ادنے کا نڈار۔ سنج قوم کا آدمی۔
 چھٹ پن - (چھٹ پن - نا) (۱-۵) مذ (۱) خردی۔ چپن۔ لڑکپن۔
 چھٹا - (چھت - ٹا) (۱-۵) ص (۱) چھٹا ہوا۔ منتخب (۲) چھ سے نسبت
 رکھنے والا۔ ششم۔ چھواں۔
 چھٹا ہوا - (۱-۵) ص (۱) عمارت۔ منتخب۔ علیحدہ (۲) بدماش۔
 چھٹا یا - (چھت - ٹا - یا) (۱-۵) مٹ (۱) رکائی۔ نجات۔
 چھٹا یا - (چھت - ٹا - یا) (۱-۵) مذ (۱) خردی۔ چھوٹا پن۔
 چھٹانک - (چھت - ٹانک) (۱-۵) مٹ (۱) سیر کا سولھواں حصہ۔ پانچ تولہ۔
 چھٹانک دھینا خیر آبادی کو مٹی۔ (۱) شل (۲) ذرا سے سراہے پر بہت
 جینی مارنے والے کے مستحق ہونے ہیں۔
 چھٹا ون - (چھت - ٹا - ون) (۱-۵) مذ (۱) چھٹن۔ اُتاج کی صفائی۔
 چھٹکا - (چھٹ - کا) (۱-۵) ص (۱) چھوٹا۔
 چھٹکا - (چھٹ - کا) (۱-۵) مذ (۱) سینس کا رنگین و منقش پردہ۔
 چھٹکا را - (چھٹ - کا - را) (۱-۵) مذ (۱) رانی۔ خلاصی۔ فرست۔ بہت۔
 چھٹکال - (چھٹ - کال) (۱-۵) مٹ (۱) چھینیں۔
 چھٹکانا - (چھٹ - کا - نا) (۱-۵) ص (۱) پرانگہ کرنا۔ پھیلانا۔ بھینرنا۔ سرکانا۔
 منتشر کرنا۔ اپنی جگہ پر واپس کرنا۔
 چھٹکانا - (چھت - ٹک - نا) (۱-۵) ص (۱) بھینرنا۔ پھیلانا (۲) تاروں کا لکھنا۔ تار بھیننا۔
 چھٹکی - (چھٹ - کی) (۱-۵) مٹ (۱) چھوٹی۔ بہت کم۔
 چھٹنا - (چھٹ - نا) (۱-۵) ص (۱) صاف ہونا۔ مواد یا طبع ٹھکانا (۲) ڈبلا ہونا (۳)
 منتخب ہونا (۴) تم ہونا۔ ترشا (۵) جدا ہونا۔ تاج کو کھوسے سے الگ کرنے کا آواز۔
 چھٹنا - (چھٹ - نا) (۱-۵) ص (۱) رکا ہونا۔ آزاد ہونا (۲) پیٹ جاری ہونا۔
 دست لگانا (۳) برطرف ہونا۔ موقوف ہونا (۴) بچنا۔ باقی رہنا (۵)
 ڈھنا۔ سر ہونا (۶) علیحدہ ہونا۔ جدا ہونا (۷) چلنا۔ روانہ ہونا۔
 چھٹکی - (چھت - ٹی - کی) (۱-۵) مٹ (۱) پانچ تولہ کا باٹ۔
 چھٹوانا - (چھٹ - وا - نا) (۱-۵) ص (۱) رکا کرنا (۲) جدا کرنا۔ موقوف کرنا۔
 چھٹوٹی - (چھت - ٹوٹی) (۱-۵) مٹ (۱) رعایت۔ تخفیف۔ کمی۔
 چھٹولا - (چھت - ٹولا) (۱-۵) مذ (۱) لباس جو بچہ پیدا ہونے کے زمانے
 میں عورتیں پہنتی ہیں۔
 چھٹولا - (چھت - ٹولا) (۱-۵) ص (۱) چھ دن یا چھ سینے کا پتہ۔
 چھٹوٹا - (۱-۵) مٹ (۱) ہندی ہیمنے کے ہر پاکھ کی چھٹی تاریخ۔
 چھٹی - (چھت - ٹی) (۱-۵) ص (۱) چھ سے نسبت رکھنے والی (۲) (۱-۵) مٹ (۱)
 بچہ پیدا ہونے کے چھ دن بعد کی رسم۔
 چھٹی جس - (۱-۵) مٹ (۱) انسان کی وہ جس کو بوسے خطرے کے وقت پیدا ہوتی ہے۔
 اور انسان کی آنے والے خطرے سے چونک اٹھنا ہے۔

چھڑی بھونگنا۔ (۱۔ محاورہ) چھڑی گھیرنا۔ چھڑی مارنا۔
 چھڑی پھیرنا۔ (۱) ذبح کرنا۔ قتل کرنا۔ جان سے مارنا (۲) سخت آزار پہنچانا۔ رکنا دینا۔
 چھڑی تلے دم لینا۔ (۱۔ محاورہ) تکلیف سہارنا۔ مصیبت برداشت کرنا۔
 چھڑی تیز رہنا۔ (۱۔ محاورہ) مارنے کو مستعد رہنا۔
 چھڑی چلنا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) چھڑیوں سے لڑائی ہونا (۲) ان بن رہنا۔ (۳) رنج پینا۔ صدمہ پہنچانا۔
 چھڑی خربوزے پر گرنے یا خربوزہ چھڑی پر (۱۔ مثل) زبردست نقصان خربوزے کا ہی ہو گا کے مقابلے میں نقصان مزید کا ہی ہوتا ہے۔
 چھڑی کٹاری۔ (۱۔ مثل) جانی نقصان (۲) بحث و تکرار (۳) صفت (۴) لڑنے پر انا۔ (۵) فساد کے لیے تیار (۶) لڑاکا۔ (۷) لڑائی میں جیتنے والوں کی فوج (۸) چھڑی کٹاری ہونا۔ (۱۔ محاورہ) سخت دشمنی ہونا۔ لڑائی جھگڑے کی باتیں ہونا۔ لڑائی ہونا۔
 چھڑی برا۔ (چھڑ۔ رے۔) (۱) صفت (۲) ڈبلا۔ پتلا۔ لمبا۔
 چھڑ۔ (۱۔ مثل) پتلا اور لمبا پانس۔
 چھڑا۔ (چھڑ۔ ڈا) (۱۔ صفت) (۲) تہنا۔ اکیلا (۳) (۱) مذ ایک قسم کا پادری کا کٹا (۲) کان کا ایک نمونہ کا زیور۔
 چھڑے چھٹانک۔ (۱۔ مذ) تہنا۔ اکیلا۔
 چھڑانا۔ (چھڑ۔ ڈا) (۱۔ محاورہ) (۲) ربا کرنا۔ آزاد کرنا (۳) جد کرنا۔ علیحدہ کرنا (۴) ترک کرنا (۵) کھولنا۔
 چھڑائی۔ (چھڑ۔ ڈا) (۱۔ محاورہ) (۲) لڑائی کا عرصہ۔ جڑمانہ (۳) وہ نقدی جو پڑیسار کو پرندوں کو چھڑنے کے لیے دی جائے۔
 چھڑا۔ (چھڑ۔ ڈا) (۱۔ مذ) چھکا۔
 چھڑ کا ڈو۔ (چھڑ۔ کا) (۱۔ مذ) پانی کا زمین پر چھڑکن۔ آب پاشی۔
 چھڑ کاٹی۔ (چھڑ۔ کا) (۱۔ محاورہ) (۲) پانی چھڑکنے کی اہمیت۔
 چھڑکنا۔ (چھڑ۔ ڈک) (۱۔ محاورہ) (۲) تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر زمین تر کرنا (۳) تصدق کرنا۔
 چھڑکوانا۔ (چھڑ۔ ڈک) (۱۔ محاورہ) (۲) چھڑکنا کا متعدی متعدی۔
 چھڑلا۔ (چھڑ۔ لا) (۱۔ محاورہ) (۲) چھانچ۔
 چھڑنا۔ (چھڑ۔ نا) (۱۔ محاورہ) (۲) فٹہ کوٹ کر صاف کرنا۔ اداکلی میں فٹہ کوٹنا۔
 چھڑنا۔ (چھڑ۔ نا) (۱) شروع ہونا۔ آغاز ہونا (۲) بننا۔
 چھڑوانا۔ (چھڑ۔ وا) (۱۔ محاورہ) (۲) ربا کرنا۔ جد کرنا۔
 چھڑی۔ (چھڑ۔ ڈی) (۱۔ محاورہ) (۲) مذ۔ برباد۔
 چھڑی۔ (چھڑ۔ ڈی) (۱۔ محاورہ) (۲) پتلی لکڑی۔ تھی (۳) وہ جھنڈی جو کسی بزرگ کے نام کی بنائی جائے (۴) جو کسی کھیلنے کی پھولوں کی تھی (۵) گوگھڑ اور پتلی دینو کی سیدھی تکیں جو عورتیں اکڑ پا جاتے دینو میں ٹانگتی ہیں (۶) (صفت) تہنا۔ اکیلا۔
 چھڑیوں کا میلہ۔ (۱۔ مذ) درگاہوں کا میلہ جہاں ان بزرگوں کے نام کی جھنڈیاں لے کر جاتے ہیں۔

چھڑیلا۔ (چھڑ۔ ڈے۔ لا) (۱۔ محاورہ) (۲) مذ ایک خوشبودار دوا۔
 چھکا۔ (چھک۔ کا) (۱۔ محاورہ) (۲) مذ (۱) چھ سے نسبت رکھنے والا (۲) گھنے یا تاش کا وہ پتہ جس پر چھ نقطے یا علامتیں ہوں (۳) (کرکٹ) وہ جگہ جس میں چھرنز بنیں (۴) پاسے کا چھ نقطے والا داؤ۔
 چھکے پینے جنھوں جانا۔ (۱۔ محاورہ) کوئی تدبیر نہ بن پڑنا۔ حواس جاتے رہنا۔
 چھکے چھوٹنا۔ (۱۔ محاورہ) گھبر جانا۔ حواس باختہ ہونا۔
 چھکا چھک۔ (چھک۔ کا) (۱۔ صفت) (۲) سب بھرا ہوا (۳) سیر (۴) مد ہوش۔ بدست۔ نشے میں پورا۔
 چھکا دینا۔ (چھک۔ کا) (۱۔ محاورہ) (۲) مذ (۳) صفت (۴) سب سیر کر دینا یعنی اور بے پروا کر دینا۔
 چھکانا۔ (چھک۔ کا) (۱۔ محاورہ) (۲) صفت (۳) سیر کرنا۔ پیٹ بھرنا۔ بے پروا کرنا۔
 چھکانی۔ (چھک۔ کا) (۱۔ محاورہ) (۲) صفت (۳) سیر کرنا۔ پیٹ بھرنا۔ بے پروا کرنا۔
 چھکڑ۔ (چھک۔ کڑ) (۱۔ محاورہ) (۲) مذ (۳) تھوڑا۔
 چھکڑا۔ (چھک۔ کڑ) (۱۔ محاورہ) (۲) مذ (۳) اسباب لادنے کی بڑی گاڑی۔ (۴) وہ چیز جس کے انجز پر ڈھیلے ہوں۔
 چھکڑا ہو جانا۔ (۱۔ محاورہ) کسی سواری کا تیز نہ چل سکتا۔ نچتا ہو جانا۔
 انجز پر ڈھیلے ہو جانا۔
 چھکڑی۔ (چھک۔ ڈی) (۱۔ محاورہ) (۲) صفت (۳) پوسر کا داؤں تینوں پانوں میں دو دو صغرا آنا (۴) وہ چھکڑے جو ایک ساتھ گاڑی میں بیٹے ہوں (۵) چھوٹا چھکڑا۔
 چھل۔ (۱۔ محاورہ) (۲) صفت (۳) دیوار کا کوئی ٹکڑا جو گر پڑا ہو۔ دیوار کی چند بگری ہوئی اینٹیں۔ (۴) مذ (۵) کر۔ فریب۔ دھوکا۔
 چھل پٹا۔ چھل پٹے۔ (۱۔ مذ) فریب۔ دم۔ دھوکا۔
 چھل بوتل میں آجانا۔ (۱۔ محاورہ) دھوکے میں آجانا۔
 چھل پٹے دینا۔ (۱۔ محاورہ) دھوکا دینا۔
 چھل بل۔ (۱۔ محاورہ) (۲) فریب۔ جیل (۳) شوخی۔ چالاک۔
 چھل کرنا۔ (۱۔ محاورہ) دھوکا دینا۔ چالاک کرنا۔ فریب دینا۔
 چھلا۔ (چھل۔ لا) (۱۔ محاورہ) (۲) صفت (۳) حلقہ۔ گندلی۔ کڑا (۴) انگشتری۔ سونے یا چاندی کا حلقہ جو انگلی میں پہنا جاتا ہے (۵) وہ نشان جو کلاہوں یا کپڑوں سے گول گول بنائے جاتے ہیں (۶) ایک قسم کا پتھانی گیت (۷) گھر کی وہ دیوار جو ایک طرف سے چھتہ اور دوسری طرف سے کچی ہو۔
 چھل پڑنا۔ (۱۔ محاورہ) پانی کا اچھوٹک جانا۔
 چھلا پڑھانا۔ (۱۔ محاورہ) ادب اشخورتوں کا کسی خاص غرض سے اپنے مقام مخصوص میں چھلا رکھنا۔
 چھلا پھینکنا۔ شوخ طبع لوگوں کا ایک کھیل ہے کہ ہاتھ کا چھلا اُٹار کر کسی کی سمتی میں پھینکا کر سمیٹا بند کر لیتے ہیں۔ جو شخص چھلے والی کھلی پکڑ لیتا یا اس کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اسی کا چھلا ہو جاتا ہے۔
 چھلا دھو کر اٹھانا۔ (۱۔ محاورہ) منت کا چھلا پاک کر کے رکھنا تاکہ کامیابی پر لٹھر دیا جائے۔
 چھلے کا کل۔ (۱۔ مذ) وہ داغ جو عجت جتانے کے لیے مشوق کا چھلا لال کر کے اپنے جسم پر لگایا جائے۔

چھلا۔ (چھل۔ لا) (ق۔ ۱۰۔ مذ) چھلا۔
 چھلانگ۔ (چھ۔ لانگ) (۱۔ ۱۰۔ مٹ) جنت۔ زندقہ۔ بھوکڑی۔ چھلانگ۔
 چھلاؤ۔ (چھ۔ لا۔ ڈ) (ق۔ ۱۔ مذ) شرفی۔ چھلایں۔
 چھلاؤ۔ (چھ۔ لا۔ ۱۰) (۱۰۔ ۱۔ مذ) چھل دینے والا۔ آسیب۔ غل۔ بیابانی۔
 شہابہ (۳) شہیدہ ہاز۔ طلسم دکھانے والا (صفت) شوخ۔ طرار۔
 چھلا واسا پھرنا۔ (۱۔ مادہ) شوخی دکھانا۔
 چھلاوا کھیلنا۔ (۱۔ مادہ) چھلاوے کا دورا دورا پھرنا۔ شہابہ کا کبھی
 ادھر کبھی ادھر چھلنا۔
 چھلاوا ہوجانا۔ (۱۔ مادہ) غائب ہوجانا چھپت ہو جانا۔ تابوین نہ آنا۔
 چھلدار۔ (چھ۔ لب۔ دار) (۱۔ مذ) ایک قسم کے ڈوم پر دائرہ بجا کر
 پیروں کے گیت گاتے ہیں۔
 چھل پلانا۔ (چھل۔ پ۔ لا۔ نا) (۱۰۔ ۱۔ ص) بازار میں کھڑے ہو کر کھڑے
 بجا بجا کر پانی پلانا۔
 چھلنا۔ (چھل۔ ٹا) (ق۔ ۱۰۔ مذ) چھلنا۔
 چھلچھل۔ (چھل۔ چھل) (۱۔ مٹ) زور سے ٹوتے کی آواز۔
 چھلچھلانا۔ (چھل۔ چھ۔ لا۔ نا) (۱۰۔ ۱۔ ص) پانی چھوڑنا۔ پشاب کرنے
 کی آواز (۲) اترانا۔
 چھلکا۔ (چھل۔ کا) (۱۰۔ ۱۔ مذ) پوست۔ چھال۔
 چھلکانا۔ (چھل۔ کا۔ نا) (۱۰۔ ۱۔ ص) بھری ہوئی چیز کو حرکت دے کر
 گرانا۔ ڈھلکانا۔
 چھلکتا ہوا۔ (چھ۔ تک۔ تا۔ ۱۰۔ ۱۰) (۱۰۔ ۱۔ ص) لہریلا۔ بھرا ہوا۔
 چھلکتا۔ (چھ۔ تک۔ نا) (۱۰۔ ۱۔ ص) (۱۰) ترقیق چیز کا لبالب ہو کر بہنا (۲)
 تھوڑی سی جہاد و شمش پر فرزند کرنا۔
 چھلکتا۔ (چھ۔ تک۔ نا) (۱۰۔ ۱۔ ص) عورت کا ٹوٹنا۔ بینزادہ خون ماکھی
 اور دوسرے سے ٹوٹ نکل جانا۔
 چھلکیوں ٹوٹنا۔ (۱۰۔ ۱۔ ص) چھوٹوں ٹوٹنا۔ ازمد رعب میں آنا۔
 چھلنا۔ (چھل۔ نا) (۱۰۔ ۱۔ ص) فریب دینا۔ دھوکا دینا (۲) (۱۰) بڑی چھینی۔
 چھلنا۔ (چھل۔ نا) (۱۰۔ ۱۔ ص) کسی چیز کا پوست اڑ جانا۔ کھال اڈھنا۔ رگڑنا۔
 چھلچھلنا۔ (چھل۔ ٹی) (۱۰۔ ۱۔ مٹ) چھاننے کا آواز۔ مڑنا۔
 چھلنی کیا بولے جس میں بہتر سوچید۔ (۱۰۔ ۱۔ مٹ) جس میں خود نفس ہو
 وہ دوسروں میں کیا نفس نکالے گا۔
 چھلنی میں ڈال چھانج میں اڑانا۔ (۱۰۔ ۱۔ مٹ) رُسوا کرنا۔ ڈونڈی
 پیننا۔ ذراسی برائی کو بڑھا کر بیان کرنا۔
 چھلنی ہو جانا۔ (۱۰۔ ۱۔ مادہ) بہت سے سوراخ ہو جانا۔ چھدنا۔
 چھلوری۔ (چھ۔ لو۔ ری) (۱۰۔ ۱۔ مٹ) وہ چھلا ہوا نکل یا ناسخ کے اندر ہوجانا
 چھلی۔ (چھل۔ لی) (۱۰۔ ۱۔ مٹ) (۱۰) پوست۔ چھلکا (۲) کٹی کا پھٹا (۳) موت کی گڑھی
 چھلی چھلیا۔ (چھ۔ لی۔ پھ۔ لی) (۱۰۔ ۱۔ مٹ) لڑکوں کا ایک کھیل۔
 چھلیا۔ (چھل۔ یا) (۱۰۔ ۱۔ ص) فریبنا۔ دھوکے باز۔
 چھیا۔ (چھ۔ یا) (۱۰۔ ۱۔ مٹ) (۱۰) سخن۔ دو گزر۔ معافی (۲) ہربانی۔ رم۔
 چھیا چھم نایج ہونا۔ (۱۰۔ ۱۔ مادہ) خوب نایج ہونا۔

چھچھا۔ (چھم۔ چھا) (۱۰۔ ۱۔ مٹ) شوگر۔ لطیفہ۔ انوکھی بات۔
 چھم چھم۔ (چھم۔ چھم) (۱۰۔ ۱۔ مٹ) (۱۰) مینہ کے برسنے کی آواز (۲) ہلنے کی
 آواز۔ گھنگر کی آواز۔ جھنگار۔
 چھم چھمانا۔ (چھم۔ چھ۔ ما۔ نا) (۱۰۔ ۱۔ ص) چھم چھم کی آواز دینا۔
 چھن۔ (۱۰۔ ۱۔ مذ) (۱۰) چھنی ہوئی چیز پر پانی پڑنے کی آواز (۲) روپے کی
 آواز (۳) گھنگر کی آواز (۴) سنگریزہ۔ لنگر (۵) کلنگ۔ وہ زور جو
 ماتہ میں بوڑھوں کے درمیان پہنتے ہیں (۶) ایک قسم کے ٹنگ جو
 دو دھاسسراں میں سا کر انعام لیتا ہے۔
 چھن چھن۔ (۱۰۔ ۱۔ مٹ) (۱۰) لہسے کی زنجیر کی آواز (۲) روپے کی آواز۔
 چھن۔ (۱۰۔ ۱۔ مٹ) (۱۰) لہسے کی زنجیر کی آواز (۲) روپے کی آواز۔
 چھن۔ (۱۰۔ ۱۔ مذ) (۱۰) تنے کی آواز۔ لڑکھاتے تیل میں کوئی چیز بڑھانے
 کی آواز (۲) گھنگر کی آواز۔
 چھن چھن۔ گھنگر دینے کی آواز۔ جھی داغ ہونے کی آواز۔
 چھن مکن چھن مکن۔ لگی رے یا تے جانے کی آواز۔
 چھٹا۔ (چھن۔ ٹا) (۱۰۔ ۱۔ مذ) (۱۰) بڑی چھینی (۲) کسی چیز کا چھنی سے نکلنا۔
 چھانا جانا (۳) سوراخ سوراخ ہونا (۴) بگاڑ ہونا۔ لڑائی ہونا (۶)
 تختیاں ہونا (۷) روشنی کا باہر نکلنا۔
 چھٹنا۔ (چھن۔ ٹا) (۱۰۔ ۱۔ ص) زبردستی لیا جانا۔ مردم کی جانا۔
 چھٹناک۔ (چھ۔ ٹاک) (۱۰۔ ۱۔ مٹ) گرم چیز پر پانی گرنے کی آواز۔
 چھٹناکا۔ (چھ۔ ٹا۔ کا) (۱۰۔ ۱۔ مذ) جھنگار۔ روپے کی آواز۔
 چھٹال۔ (چھ۔ ٹال) (۱۰۔ ۱۔ ص) (۱۰) دکا اور دفاستہ عورت۔ زانیہ (۲)
 شہوت پرست (۳) شوخ۔ بے شرم (۴) عیار۔ چالاک۔ بد ذات۔
 چھٹال پن (پینا)۔ (۱۰۔ ۱۔ مذ) ابواشی۔ زنا کاری۔ بد کاری۔ شرارت۔
 بے شرمی۔ عیاری۔ مکاری۔
 چھٹالا۔ (چھ۔ ٹالا) (۱۰۔ ۱۔ مذ) عورت کی بد کاری۔
 چھٹالا کرنا۔ (۱۰۔ ۱۔ مادہ) بد کاری کرنا۔ زنا کرنا۔ کسب کرنا۔
 چھٹاؤ۔ (چھن۔ ٹا۔ اور) (۱۰۔ ۱۔ مذ) چھانٹ۔ تراش۔ چھین۔
 چھٹنا۔ (چھنٹ۔ ٹا) (۱۰۔ ۱۔ ص) چھٹنا جانا۔ منتخب ہونا۔
 چھٹیل۔ (چھن۔ ٹیل) (۱۰۔ ۱۔ مٹ) باقی بچی ہوئی خراب چیز جس سے
 اچھا حصہ نکال لیا گیا ہو۔
 چھٹینا نا۔ (چھن۔ ٹا۔ نا) (۱۰۔ ۱۔ ص) چھن چھن کی آواز نکالنا۔ جھنگارنا۔
 چھٹینا ہٹ۔ (چھن۔ ٹا۔ ہٹ) (۱۰۔ ۱۔ مٹ) لہسے کی زنجیر کی آواز
 روپے اشرنی وغیرہ کی آواز۔
 چھند۔ (۱۰۔ ۱۔ مذ) (۱۰) کر۔ فریب۔ نعل (۲) دھت (۳) ہندی نظم (۴) (ق) نامند
 چھند بند۔ (۱۰۔ ۱۔ مذ) فریب۔ کر۔ چالاک۔ عیاری۔
 چھند بھری۔ فریبی۔ مشہور۔ کر۔ (ق)
 چھند چھوندے۔ (۱۰۔ ۱۔ مذ) فریب۔ کر۔ (ق)
 چھند ماترا۔ (۱۰۔ ۱۔ مذ) تقطیع۔ اوزان۔ دمجور۔ شعر کا وزن۔
 چھند ٹانا۔ (چھن۔ ڈ۔ نا) (ق) مٹے کرنا۔
 چھنڑا۔ (چھن۔ ڈا) (۱۰۔ ۱۔ ص) (۱۰) زانی کی بدکار (۲) شہدا۔ ٹپا۔

چھنگا کرنا۔ (۱۔ ص) دوا کو آگ پر نیرم گرم کرنا۔

چھنگ جانا۔ (۱۔ محاورہ) بارود کم ہونے کی وجہ سے آتش بازی کا نہ چلنا۔

چھنگنا۔ (بھ۔ تک۔ نا) (۱۔ ص) ناک صاف کرنا (۲) چھرکنا (۳) چھاننا۔

چھنگا۔ (بھن۔ گا) (۱۔ ص) پھر اٹکیوں والا آدمی۔

چھنگلی۔ چھنگلیا۔ (بھنگ۔ لی) (بھنگ۔ لی) یا (۱۔ ص) سب سے چھوٹی اٹلی۔

چھنوانا۔ (بھن۔ دا۔ نا) (۱۔ ص) چھاننے کا مستوی المتدی۔

چھنوانا۔ (بھن۔ دا۔ نا) (۱۔ ص) چھیننا کا مستوی المتدی۔

چھو۔ (۱۔ ص) (۱) کچھ بڑھ کر پھوٹنے کی آواز (۲) جاو۔ انوں۔ بستر دم بٹانا

چھو بننا۔ چھو جو جانا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) ہوا ہونا۔ رخصت ہونا۔ چلتا ہونا۔ چپٹا ہونا

چھو کرنا۔ (۱۔ محاورہ) دم کرنا۔ دُعا پڑھ کر پھوٹنا۔

چھو مستر۔ (۱۔ ص) جاو۔ ٹونا۔

چھو اچھو۔ (بھو۔ آچھو) (۱۔ ص) دھوپوں کے پڑا دھونے کی آواز۔

چھو تک۔ (بھو تک۔ ق) (۱۔ ص) رٹائی چھکانا۔

چھو ارا۔ چھو ارا۔ (بھ۔ دا۔ را) (بھ۔ دا۔ را) (۱۔ ص) ایک قسم کی بڑی اور سولھی کھجور۔

چھو ارا بیر۔ مرغ اور شیر میں لبا بیر۔

چھوانا۔ (بھ۔ دا۔ نا) (۱۔ ص) لٹکانا جس کرنا۔

چھوپ۔ (۱۔ ص) (۱) دوا میں جو گھوڑے کے ذم پر مناد کی طرف لٹائی

جائیں یا باندھی جائیں۔

چھوپ چھاپ۔ دیوار کا رشتہ بند کرنا۔ پستر۔ کھنک۔

چھوپا۔ (بھو۔ پا) (۱۔ ص) گلی مٹی جس سے دیوار کا سوراخ بند کرتے ہیں۔

چھوپنا۔ (بھوپ۔ نا) (۱۔ ص) گلی مٹی سے دیوار و دینرو کے سوراخوں کا بھرنا۔

چکی دیوار کی مرمت کرنا۔

چھوت۔ (۱۔ ص) (۱) چھو۔ مس (۲) ناپاک آدمی کا سایہ (۳)

ناپاک۔ بیدی۔

چھوٹ۔ (۱۔ ص) (۱) رٹائی۔ آزادی (۲) فرسٹ۔ چھنگارا (۳)

کی۔ تخنیت (۴) بے تکلفانہ چھوٹ۔ گالی گشتار (۵) طلاق (۶) ستنے۔

(۷) وہ مقام جہاں سے کبوتروں کو چھوڑنے کی شرط ہو (۸) انزال۔

چھوٹ پڑنا۔ (۱۔ محاورہ) کسی چیز کا کسی چیز پر عکس پڑنا۔

چھوٹ چھٹاؤ۔ (۱۔ ص) ملندگی۔ بڑائی (۲) بیچ بھاؤ۔

چھوٹ لڑنا۔ (۱) بربازی میں ایک شخص کا متعدد لڑائی میں کھینکے والوں سے

مقابلہ کرنا (۲) باہم کھیل گالیاں دینا (۳) اس طرف لڑنا کہ حریف کو موقع نہ ملے۔

چھوٹ ہونا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) فرسٹ ہونا۔ وقت ملنا (۲) چھوٹا ہونا۔ بے تکلف

مزاج ہونا (۳) بربازی میں بے قید ہو کر پھری گدگوں سے لڑنا۔

چھوٹا۔ (بھوٹا۔ ص) (۱) کوتاہ۔ تنگ (۲) خرد۔ عمر میں کم (۳) کم۔ تلیل

(۴) کینہ۔ بیخ۔ (۵) ادنئے۔

چھوٹا استنجا۔ (۱۔ ص) (۱) بیابان کے مٹی کے ڈھیلے سے بیتہ تری خشک

کرنا (۲) پیشاب کرنا (۳) مرمت پیشاب کرنے کے بعد عضو کا دھونا۔

بڑا استنجا کے مقابل آتا ہے جو باخدا پھرنے کے بعد کیا جاتا ہے۔

چھوٹا پا۔ (۱۔ ص) چھوٹا پن۔ چھٹا پا۔

چھوٹا جلا۔ (۱۔ ص) دسواں۔ میواں اور پینے کا مشل جو بچہ کو دیا جاتا ہے۔

چھوٹا سب سے کھوٹا۔ (۱۔ ص) چھوٹے قدر آدمی بڑا شریر ہوتا ہے۔

چھوٹا صاحب۔ (۱۔ ص) بڑے افسر سے چھوٹا افسر۔

چھوٹا کپڑا۔ (۱۔ ص) انگلی۔

چھوٹا گھر بڑا سمہیانہ۔ (۱۔ ص) نام بڑا اور حیثیت کچھ نہیں۔

چھوٹا منہ بڑی بات۔ (۱۔ ص) اپنی لیاقت سے زیادہ بڑی بات کرنا۔

وصلے سے زیادہ دعویٰ۔

چھوٹے بڑے۔ (۱۔ ص) امیر عزیز۔ اعلیٰ ادنیٰ۔ نیچے بڑے۔

چھوٹے دل کا۔ (۱۔ ص) پست ہمت۔ کم حوصلہ۔

چھوٹے ہی۔ (بھوٹ۔ تے۔ ہی) (۱۔ ص) تابع فعل (۲) ذرا۔ اسی وقت۔

چھوٹنا۔ (بھوٹ۔ نا) (۱۔ ص) (۱) کھلنا۔ آزاد ہونا۔ رستی تڑانا (۲) گھوڑے

کا بھینج کرنا (۳) نکلنا (۴) انزال ہونا۔

چھوٹی۔ (بھوٹی۔ ٹی) (۱۔ ص) چھوٹا کی تائینت۔

چھوٹی الائچی۔ (۱۔ ص) سفید الائچی۔

چھوٹی اُمت۔ (۱۔ ص) کینے لوگ۔ بیخ آدمی۔

چھوٹی بات۔ (۱۔ ص) تخنیت معاملہ۔ گھٹیا بات۔

چھوٹی بوٹ۔ (۱۔ ص) چھوٹی اٹلی۔ (ق)

چھوٹی کھوٹی کا۔ (۱۔ ص) (۱) گھوڑے اور آدمی کے لیے استعمال ہے (

پست قدر۔ چھلک۔ کم درجہ۔ کم حیثیت۔

چھوٹی گولی کا روپیہ۔ (۱۔ ص) شاہی زمانے کا روپیہ جس کی چاندی نالیوں ہوتی تھی

چھوٹی مائیں۔ ایک دوا کا نام۔

چھو جا۔ (بھو۔ جا) (ق) صفت (۱) اچھا۔ کینہ۔ چھو جا۔

چھو چھک۔ (بھو۔ چھک) (۱۔ ص) (۱) بچہ خانے کی ایک رسم چھٹی۔

چھو۔ چھو۔ (بھو۔ چھو) (۱۔ ص) (۱) دایہ۔ کھلائی وہ عورت جو لڑکیوں کی

خدمت کے لیے مقرر ہوتی ہے۔

چھوچی۔ (۱۔ ص) (۱) یا بائس کا کھوکھلا ٹھنڈا۔ ٹیوب۔ نالی (۲) ٹخنے کی

(۳) سونیاں رکھنے کی نگلی۔

چھور۔ (۱۔ ص) (۱) معاملہ۔ کھانا (۲) سرحد (۳) پہلو۔ طرف (۴) چوٹی۔

کھڑکھ (۵) وہ کشتی جو دوسری کشتی کو کھینچ کر لے جائے۔

چھورا۔ (بھو۔ را) (۱۔ ص) (۱) چھوڑا۔ لڑکا۔ حکام۔

چھوری۔ (۱۔ ص) (۱) چھوڑا کی تائینت۔

چھوڑا۔ (۱۔ ص) (۱) کسی کو کسی مقام پر چھوڑ کر آپ چلے آنا۔

چھوڑی ملی جو کا لٹہ ورا بھی جلا۔ (۱۔ ص) (۱) جو نقصان کر دیا سو کر دیا۔

اب تو بچھا چھوڑو۔

چھوڑنا۔ (بھوڑ۔ نا) (۱۔ ص) (۱) نجات دینا (۲) بخشا۔ صاف کرنا (۳)

ترک کرنا۔ رو کرنا (۴) آزاد کرنا۔ آزاد کرنا (۵) بھانا (۶) استغفا دینا۔

میلندگی اختیار کرنا (۷) طلاق دینا (۸) دھڑانا (۹) مکان خالی کرنا۔

(۱۰) بھار کھنا (۱۱) پانی بہانا (۱۲) بندوق یا آتش بازی چلانا (۱۳)

درگزر کرنا (۱۴) شکاری جانور کو شکار پر چھٹانا (۱۵) باقی چھوڑنا۔

(۱۶) ہمت مارنا۔ بزدلی دکھانا۔

چھوکر - (ہجوک - را) - ذوصت [۱] لڑکا [۲] کسن ذکر چیلہ [۳] نادان یا توہم کار
 چھوکر کی - (ہجوک - ری) - (۱-۱۰) مٹ [۱] لڑکی - چوری (۱۷) لوندی -
 چھول - (ق-۱-۱۰) مٹ [۱] خواہش [۲] مذ [۱۱] ناز [۱۲] مٹ [۱۳] پہل خوشی تعزین -
 چھول - (ق-۱۰) مٹ [۱] چھوٹی سون -
 چھولا - (س-۱-۱) مذ [۱] پختا -
 چھولدار - (چھول - دا-ری) - (۱۰) مٹ [۱] چھوٹا سا ڈیرہ (خیر -
 چھولنا - (چھول - نا) - (۱۰) مٹ [۱] چھیلنا - چھلکا اُٹانا -
 چھولنی - (چھول - نی) - (۱۰) مٹ [۱] کھوپلی -
 چھوٹا - (چھو - نا) - (۱۰) مٹ [۱] مٹس کرنا - ہاتھ لگانا -
 چھوٹنا - (۱۰) مٹ [۱] مٹس کرنا - ہاتھ لگانا -
 چھوٹنا جانا - (۱۰) مٹ [۱] بالکل نہ ہونا - قریب نہ پھٹنا -
 چھوٹنا - (چھوٹ - چھا) - (۱۰) مٹ [۱] مٹس کرنا - ہتی دست - ہرغالی پیڑ -
 چھوٹوٹی - (چھوٹ - چھی) - (۱۰) مٹ [۱] لڑکی کی ٹی [۲] سٹوٹیوں کی ٹی [۳] سوا -
 بڑی سوٹی [۴] پھول کے لیے چھوٹا پیالہ -
 چھونک - (۱۰) مٹ [۱] مذ [۱] گھار - دارخ -
 چھونکن - (چھون - کن) - (۱۰) مٹ [۱] مذ [۱] گھارنے کا آلہ -
 چھونکنا - (چھونک - نا) - (۱۰) مٹ [۱] مٹس کرنا - گھی دار کرنا -
 چھوٹا - (چھو - ہا - را) - (۱۰) مٹ [۱] مذ [۱] ایک قسم کی خشک کھجور -
 چھوٹی موٹی - (چھوٹی - ی - ٹوٹی) - (۱۰) مٹ [۱] مٹ [۱] مذ [۱] ایک قسم کی
 لڑکی جس کے پتے آدمی کے ہاتھ لگانے سے مڑ جاتے ہیں [۲]
 نہایت نازک ستاس -
 چھوٹتر - (چھوٹ - ہست - تر) - (۱۰) مٹ [۱] چھوٹا پرستار (۷۶)
 چھوٹی - (چھوٹی - ای) - (۱۰) مٹ [۱] مذ [۱] ایک پرند کا نام -
 چھوٹی - (۱۰) مٹ [۱] مذ [۱] حرف تفرق [۱] لٹ - چھوٹو - بڑا - خواب - لکھا - گدا -
 (۷) چھیننے کی آواز -
 چھی چھی - (۱۰) مٹ [۱] چھوٹا کا باغ خانہ - گوہ - براز [۲] نفرت کا کلمہ -
 چھیاسٹھ - (چھوٹ - یا - ٹھ) - (۱۰) مٹ [۱] مذ [۱] چھوٹا سا ٹھ (۶۹)
 چھیاسی - (چھوٹ - یا - سی) - (۱۰) مٹ [۱] مذ [۱] چھوٹا سا ٹھ (۸۶)
 چھیالیںس - (چھوٹ - یا - لیںس) - (۱۰) مٹ [۱] مذ [۱] چھوٹا سا ٹھ (۳۶)
 چھیالوے - (چھوٹ - یا - لے) - (۱۰) مٹ [۱] مذ [۱] چھوٹا سا ٹھ (۹۶)
 چھییل - (چھی - ب - لی) - (ق-۱-۱۰) مٹ [۱] مذ [۱] چھوٹا سا ٹھ (۸۶)
 چھیپ - (۱۰) مٹ [۱] مذ [۱] دن کا سفید دان یا چھیل - دجبا - (۱۰) مٹ [۱] مذ [۱] ایک قسم کا میوہ
 (۳) چھیپاں پکڑنے کی چھڑی (۲) زین کا کلمہ -
 چھیٹی - (چھی - ٹی) - (۱۰) مٹ [۱] مذ [۱] چھوٹا چھاپنے والا (۲) (۱۰) مٹ [۱] مذ [۱] وہ کڑا بندھی
 ہوئی چھڑی جس سے کبوتر اڑاتے ہیں -
 چھیج - (۱۰) مٹ [۱] مذ [۱] نقصان - ذوال - کسی چیز کے بار بار توڑنے ، سونکنے ،
 ٹوٹنے سے کی واقع ہوتا -
 چھی جانا - (۱۰) مٹ [۱] مذ [۱] سوراخ ہو جانا - پھٹنا - کان کا سوراخ زبور کے
 بوجھ سے بڑا ہو جانا -
 چھیٹنا - (۱۰) مٹ [۱] مذ [۱] مٹ [۱] کم ہونا - ٹھٹنا (۲) مرنا (۳) ضائع ہونا - خواب
 ہونا (۴) اڑنا - اٹنا -

چھیچھڑا - (چھیچھڑا - چھیچھڑا - چھیچھڑا) - (۱۰) مٹ [۱] مذ [۱] چھیچھڑا - گوشت کا کلمہ
 جھتہ - لہلہا -
 چھید - (۱۰) مٹ [۱] مذ [۱] سوراخ - رخنے (۷) بل - گڑھا - جھٹ -
 چھید ڈالنا - (۱۰) مٹ [۱] مذ [۱] سوراخ کرنا (۲) مٹ [۱] مٹس کرنا -
 رنج پہنانا -
 چھیدنا - (چھید - نا) - (۱۰) مٹ [۱] مذ [۱] سوراخ کرنا -
 چھیڑ - (ق-۱-۱۰) مٹ [۱] مذ [۱] زخم - شکات -
 چھیڑنا - (۱۰) مٹ [۱] مٹ [۱] آدمیوں کی کی - جوم کا زوال -
 چھیڑنا - (۱۰) مٹ [۱] مٹ [۱] چھوٹا (۲) گدگدائی (۳) ہنسی - ٹھٹھا (۴) مخالفت - فساد -
 (۵) بڑھانے کی بات (۶) نشتر زنی (۷) کس بابے کی حرکت -
 چھیڑنا - (۱۰) مٹ [۱] مٹ [۱] ہنسی - مذاق - طعن (۲) بات چیت (۳)
 خلوکنا بت (۴) لڑائی بھڑائی -
 چھیڑنا - (۱۰) مٹ [۱] مذ [۱] دل لگی - ٹھٹھا - حمل (۲) رنج - کاوش (۳)
 اشتغال منع -
 چھیڑنا - (۱۰) مٹ [۱] مذ [۱] طعنہ زنی کرنا - پڑنا -
 چھیڑنا - (چھیڑ - نا) - (۱۰) مٹ [۱] مذ [۱] چھوٹا - ہاتھ لگانا (۲) گدگدائی (۳) پھلکنا -
 پڑنا - (۱۰) مٹ [۱] مٹ [۱] گھوڑا دوڑانا (۵) مذاق کرنا - ٹھٹھا کرنا (۶)
 ذکر کرنا - کوئی بات یاد دلانا (۷) ستانا - دن کرنا (۸) چٹانا - آگاہ کرنا (۹)
 نشتر لگانا - زخم کو پھیرنا لگانا (۱۰) باجا جانا (۱۱) اٹنا کرنا (۱۲) گانا - اٹنا -
 چھک - (ق-۱-۱۰) مٹ [۱] مذ [۱] سوراخ - رخنے -
 چھکتوت - (چھی - ک - ٹوت) - (ق-۱۰) مٹ [۱] مذ [۱] آوارہ (۲) پریشان -
 چھیل - (۱۰) مٹ [۱] مذ [۱] رگیلا - اچھا لباس پہن کر بنا ٹھٹھا رہنے والا - حسین - خوبصورت -
 چھیلنا - (۱۰) مٹ [۱] مذ [۱] رگیلا - چھیلنا - بانگا (۲) ایک قسم کی خوشبودار
 گھاس جس سے کپڑے رنگتے ہیں -
 چھیلا - (چھی - لا) - (۱۰) مٹ [۱] مذ [۱] رگیلا - بانگا (۲) (۱۰) مٹ [۱] مذ [۱] بکا -
 چھیلا پھرے گلے گلے ، جب میں نہیں کھیل کی ڈلی - (۱۰) مٹ [۱] مذ [۱] پاس
 کچھ نہیں کہتی اور نودہت -
 چھیلیں - (چھی - لی) - (۱۰) مٹ [۱] مذ [۱] تراشہ ہو کر کوئی چیز چھیننے سے نکلے -
 چھیلنا - (چھیل - نا) - (۱۰) مٹ [۱] مذ [۱] پلست آٹا کرنا - ٹھٹھا چٹا (۲) خواش کرنا - چھیلی
 کرنا (۳) حزن اڑانا -
 چھیلی - (چھی - لی) - (۱۰) مٹ [۱] مذ [۱] چھی - لی - چھی - (۱۰) مٹ [۱] مذ [۱] بکری - گوسفند -
 چھیلن - (ق-۱-۱۰) مٹ [۱] مذ [۱] لہ - آن -
 چھینا - (چھی - ٹی) - (۱۰) مٹ [۱] مذ [۱] چھی - ٹی - چھیلن - جھپٹنا - (۱۰) مٹ [۱] مذ [۱] زبردستی چھیننا - نوچا کھسوتی - کشکش -
 چھینٹ - (۱۰) مٹ [۱] مذ [۱] ٹوند - قطروہ (۲) ایک قسم کا بیل ٹوندے دار کپڑا -
 رنگین چھپا ہوا کپڑا (۳) دارخ - دھتیا -
 چھینٹا - (چھی - ٹا) - (۱۰) مٹ [۱] مذ [۱] پانی کا پھوٹو (۲) بگی بارش - خیف ساینڈ (۳)
 فزیب - دھوکا (۴) مذک یا چند ڈک ایک دم (۵) طعنہ - نوکا جھونکی (۶) رنج
 جو ہاتھ سے بکیر کر لیا جاتا ہے -
 چھینٹا پڑنا - (۱۰) مٹ [۱] مذ [۱] خیف ساینڈ برسا - بگی بارش ہونا -

چھینٹا - دینا - (۱- عمارہ) (۱) کسی بریلو پھر پانی وغیرہ پھرنے (۲) پھینک کے
 نہ جانے برسوں کے پانی کا پتے پر پھرنے (۳) فریب دینا - لالچ دینا -
چھینٹا مارنا - (۱- عمارہ) (۱) پانی یا رنگ وغیرہ کا چھینٹا دینا (۲) مرد کرنا - لکھیں دینا -
چھینٹوں میں آنا - (۱- عمارہ) دم میں آنا - فغروں میں آنا -
چھینٹے پھینکنا - (۱- عمارہ) الزام لگانا - بہتان لگانا -
چھینٹے دینا - (۱- عمارہ) فریب دینا - دھوکا دینا (۲) اشتعال دینا - آگسنا -
چھینٹیں اڑانا - (۱- عمارہ) لگاتار ہاتھ سے پانی پھینکنا - کسی چیز کا پانی سے
 اس طرح گزرنے کہ اس سے پانی کے قطرے اڑیں -

چھینک - (۱- مٹ) (۱) آواز جو ناک سے زکام یا کسی سلسلا ہٹ کے
 باعث نکلے -
چھینک آنا - (۱- عمارہ) ناک سے خود بخود آواز نکلنا -
چھینک ہونا - (۱- عمارہ) برا شگون ہونا -
چھینک مارنا - (۱- عمارہ) چھینک کا آنا -
چھینکنے ہی ناک کٹی - (۱- شل) ابتدا ہی خراب ہو گئی -
چھینکا - (پھیں - کا) (۱- مٹ) (۱) وہ جالی یا لکھن جو کھانا وغیرہ رکھنے کے واسطے
 پخت میں لٹکا دیتے ہیں (۲) وہ جالی جو جو پھولوں کے سنبہ پر لٹکا دیتے ہیں -
چھینکنا - (۱- مٹ) ناک کی خراش کی وجہ سے ہوا کا زور سے ناک سے نکلنا -
چھینک آنا -
چھینکیں لینا - (۱- عمارہ) ناک میں کوئی دوائی (ملاس) وغیرہ رکھنا تاکہ
 پھینکیں آئیں -
چھین لینا - (پھیں - لے - نا) (۱- مٹ) زبردستی لے لینا - جھپٹ لینا -
چھیننا - (پھیں - نا) (۱- مٹ) زبردستی لے لینا - پھیں لینا - جھپٹا مارنا -
چھیننی - (پتے - نی) (۱- مٹ) ٹانگی - لولا کاٹنے کا اوزار -

چھینٹنا - (پخت - نا) (۱- مٹ) (۱) ہوشیار ہونا - جاگنا (۲) سمجھ میں آنا -
 یاد کرنا (۳) چراغ کا تیز ہونا -
چھینٹنا - (۱- مٹ) پھینٹیاں ڈالنا - منتقل کرنا - قصور رکھنا -
چھینٹنا - (۱- مٹ) (۱) مٹا کرے کا ٹکڑا - لیر - لہتہ -
چھینٹے سے لکھنا - (۱- عمارہ) مٹسی کے مارے کو پڑے پھٹے ہونا -
چھینک - (پتے - ٹک) (۱- مٹ) (۱) لگن - دھن - شوق -
چھینچا - (پھی - چا) (۱- مٹ) (۱) اندر کا اٹھرا ہوا گشت -
چھینچوڑی - (پنج - بڑی) (۱- مٹ) (۱) کڑا جو کتے، گائے، بھینس وغیرہ کے
 بدن میں لگ جاتا ہے -
چھینچک - (پتے - چک) (۱- مٹ) (۱) سیٹلا - ماتا - ایک بیماری جس میں جسم
 پر دانے پڑ جاتے ہیں -
چھینچک رو - (ت - صفت) وہ شخص جس کے چہرہ پر پھینک کے نشان ہوں -
چھینچ - (آڑ - مٹ) (۱) زور کی آواز - چلا ہٹ (۲) درد کی آواز (۳) غل
 شور (۴) چنگلی ڈر -
چھینچ اٹھنا - (۱- عمارہ) (۱) مٹا اٹھنا - درد سے چلانا (۲) ایک زور کی آواز نکالنا -
چھینچ مارنا - (۱- عمارہ) درد سے زور کی آواز نکالنا -
چھینچ چارچ پھینا - (پھی - تم - چار - ج - نا) (۱- مٹ) غل شور پڑنا - پکار پڑنا -
چھینچ دھاڑ چھانا - (۱- مٹ) ہنگامہ برپا کرنا - دھوم مچانا -
چھینچنا - (پنج - نا) (۱- مٹ) (۱) چلاتا - شور کرنا (۲) پکارنا - فریاد کرنا -
چھیدو - (پھی - وہ) (ت - صفت) چھنا ہوا - انتخاب کیا ہوا -
چھیدو چھیدو - اچھے اچھے - عمدہ - منتخب -
چھیر - (۱- مٹ) (۱) شکاف - زخم (۲) دھجی - کپڑے کی پٹی - کترن (۳) دوپٹ
چھیر آنا - (۱- عمارہ) شکاف ہو جانا - زخم آ جانا -
چھیر بھاڑ - (۱- مٹ) محل جراثمی -
چھیر (Chair) (پتے - آر) (۱- مٹ) (۱) کرسی - کرسی اجلاس -
 کرسی صدارت -
چھیرمین - (Chairman) صدر - مبر مجلس -
چھیرا - (پھی - را) (۱- مٹ) (۱) شکاف - زخم (۲) ایک قسم کی منتقل پگڑی -
چھیرا (۳) دو شیزگی (۴) نوکر - ملازم -
چھیرا اتارنا - چھیر اتورنا - (۱- عمارہ) (۱) ازالہ بکارت کرنا - کوہا بہن اتارنا
 (۲) بے عزت کرنا - عزت لینا -

چھینک - (۱- عمارہ) ناک سے زکام یا کسی سلسلا ہٹ کے
 باعث نکلے -
چھینک آنا - (۱- عمارہ) ناک سے خود بخود آواز نکلنا -
چھینک ہونا - (۱- عمارہ) برا شگون ہونا -
چھینک مارنا - (۱- عمارہ) چھینک کا آنا -
چھینکنے ہی ناک کٹی - (۱- شل) ابتدا ہی خراب ہو گئی -
چھینکا - (پھیں - کا) (۱- مٹ) (۱) وہ جالی یا لکھن جو کھانا وغیرہ رکھنے کے واسطے
 پخت میں لٹکا دیتے ہیں (۲) وہ جالی جو جو پھولوں کے سنبہ پر لٹکا دیتے ہیں -
چھینکنا - (۱- مٹ) ناک کی خراش کی وجہ سے ہوا کا زور سے ناک سے نکلنا -
چھینک آنا -
چھینکیں لینا - (۱- عمارہ) ناک میں کوئی دوائی (ملاس) وغیرہ رکھنا تاکہ
 پھینکیں آئیں -
چھین لینا - (پھیں - لے - نا) (۱- مٹ) زبردستی لے لینا - جھپٹ لینا -
چھیننا - (پھیں - نا) (۱- مٹ) زبردستی لے لینا - پھیں لینا - جھپٹا مارنا -
چھیننی - (پتے - نی) (۱- مٹ) ٹانگی - لولا کاٹنے کا اوزار -

چ - ج - ی

چھی - (ت - لاصق) اردو اور فارسی میں اسم کے ساتھ بل کر جاتا ہے جیسے
 مشعلی - باد پھی - تسنیر جاتا ہے جیسے پھیگی -
چھیاں - (ج - یاں) (۱- مٹ) (۱) اعلیٰ کلچر - تم تر ہندی -
چھیاں سا - چھیاں سی - چھوٹا سا - چھوٹی سی -
چھیانتی - (Chianti) (ج - یاں - تی) (۱- مٹ) سرخ اطالی شہ
چھیپ - (۱- مٹ) (۱) لیس (۲) لاسا - پچکنے والی (۳) زخم کی ہیپ (۴) طوبت
 جو یکے ہوئے آموں سے نکلتی ہے -
چھیپ دار - (۱- مٹ) (۱) صفت، لٹ دار - پھیلتا ہوا -
چھیپ - (۱- مٹ) (۱) مٹا جو دولت - پھر یا کڑی سے ٹوٹ کر الگ ہو جانے -
چھیپڑ - (پھی - پڑ) (۱- مٹ) (۱) آنکھ کا میل کیل - وہ طوبت جو آنکھ سے نکلے -
چھیپڑ بہنا - (۱- عمارہ) آنکھوں کا میل کیل کی کارواں ہونا -
چھیپلین - (Chaplain) (چھیپ - لین) (۱- مٹ) (۱) پادری کسی
 مآدان کا پادری -

چیرا بند - (ف۔ ا۔ صف) ۱۱ بکرہ - (دیشیزہ - کزادی ۱۲) چیرا بانڈنے والا - (دستار بند -

چیرا دینا - چیرا لگانا - (۱۱) محاورہ) شگاف دینا - زخم لگانا - نشتر مارنا -

چیرنا - (بہتر - نا) وہ جس (چھاڑنا - گلٹے کرنا - شگاف دینا - شق کرنا -

چھیڑو - (پے - رو) ڈار - (۱ - مذ) ۱۱) سرخ رنگ کا کچا سوت (۲) جنگلی قوم -

چھیرو چار بچا اور پانچ - (۱۰) مثل (۱) بہت مرنے تازے کی نسبت عورتیں تختی سے بولتی ہیں -

چھیرو - (پی - زہ) (ف۔ صف) زور آور - بہادر - غالب -

چھیرو دست - (ف۔ صف) غالب - زور آور - زبردست -

چھیرو دستی - (ف۔ صف) مثل - غلبہ - طاقت - قوت - برتری -

چھیرو - (پی - زہ) (۱ - صف) ایک قسم کی منتشر پگڑی -

چھیروے والا - (۱ - مذ) ۱۱) پگڑی بانڈنے والا (۲) عجم - طیب - سماج -

چھیروی - (پے - ری) (۱ - صف) بانڈی - کینیز - ملازم (۲) دہلی - کمرن -

چھیروی لگانا - (۱۱) محاورہ) بیٹھ بکری کے ختنوں پر گو بر لگا کر کپڑے کی دہلی پھینکانا کہہ سکتے ہیں -

چھیڑ - (۱ - صف) ایک اونچی جنگلی درخت (۲) دیار دیو دار کی قسم کا درخت -

چھیڑ - (ف۔ ا۔ صف) ۱۱) شے - اسباب - جنس (۲) زور گنا پاتا (۳) اگیت

راگ (۲) اصل - حقیقت (۵) مٹائی - شیرین (۶) امانت -

چھیڑ بست - (۱ - صف) اسباب - آثار - آثار -

چھیڑی - (پی - زی) (۱) ڈار - (۱ - صف) بچوں کی زبان میں مٹائی - شیرینی مٹھی بولتے ہیں

چھیس - (۱ - صف) میں - درد -

چھیستان - (پیس - تان) (ف۔ ا۔ صف) ۱۰) مٹھی - ہتھیار - جھیت آل سے بنایا ہوا

چھیس - (پی - سی) (۱ - صف) خوش وضع عورت -

چھیف - (Chief) (رنگ - صف) ۱۱) اعلیٰ - افضل (۲) خاص -

چھیف جسٹس - (Chief Justice) عدالت عالیہ کا بڑا جج -

چھیف کورٹ - (Chief Court) عدالت عالیہ - بڑی عدالت -

چھیک - (ق۔ ا۔ صف) ۱۱) وہ مادہ جو کھڑی کے جلتے وقت اس کے آخری

سے پر ظاہر ہوتا ہے -

چھیک (Cheque) (رنگ - مذ) بینک سے روپیہ نکالنے کا تحریری حکم -

چھیک - (Check) (رنگ - ا۔ صف) ۱۱) چار خانہ کپڑا - چار خانہ دار -

چھیکٹ - چھکٹ - (پی - کٹ) (رنگ - کٹ) (۱ - صف) ۱۱) چراغ کی گادیتل

کی گاد - وہ ٹی جو تیل کے باعث سیاہ اور چکن ہو جائے (۲) کالا سیاہ - چکنا -

چھیکٹ اتروائی - (۱) ہوا جو بھائی کی شادی میں نکاح کے دوسرے دن بہن

کے پیٹے کپڑے اترا دکھائی کی طرف سے پہنایا جاتا ہے -

چھیکڑ - (پی - کڑ) (۱ - صف) ۱۱) کپڑے (۲) چکنی مٹی -

چھیل - (۱ - صف) ایک مشہور پرندہ - زمین -

چھیل انڈا چھوڑتی ہے - (۱) مثل (۱) ایسی گری ہے کہ اس کی تاب نہ لاکر چھیل

انڈوں سے اٹھ جاتی ہے - سنت گری کے اظہار کے لیے کہتے ہیں -

چھیل چھینا - (۱ - صف) ۱۱) چھیل کا چھینا (۲) کسی چیز کا اس طرح لے جانا جس طرح

چھیل چھینا مارنے جاتی ہے (۳) لڑکوں کا ایک کھیل (۴) پہلے کپڑے کا ایک آلہ

چھیل بھینٹا کرنا - (۱ - محاورہ) ہمیں لینا - چھینا بھینٹ کرنا -

چھیل چھوڑو - (۱) چھیلوں کے بلانے کا ایک کلمہ ہے جس سے چھیلوں کو گوشت لے

جاتی ہیں (۲) بچوں کے ایک کھیل کا نام - جس میں پتے دو گروہ بنا کر اپنی اپنی

مدیں کو ٹوں سے لیکر میں بناتے ہیں - مغزروہ دقت ختم ہونے پر ہر ایک

اپنے گروہ کی لیکر میں گنوتا ہے جس کی لیکر میں زیادہ ہوں - وہ دوسرے یعنی

بارنے والے گروہ کے لڑکوں کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ کی دھمکیوں دانڈ

لیکروں کے مطابق ضرب لگاتے ہیں -

چھیل کا پٹھا - (۱ - صف) ۱۱) پھل کا پتھر (۲) احمق - بیوقوف -

چھیل کا ٹوٹ - (۱ - صف) نایاب چیز -

چھیل کو توں کو توں - (۱ - محاورہ) بولتی بولتی کہے چھیلوں کو دے دوں -

چھیل کی طرح منڈلانا - (۱ - محاورہ) کسی چیز کی خواہش میں بیتاب پھرنا -

چھیل کے ٹھونڈے میں ماس کہاں - (۱ - مثل) کھانے اڑانے والے

کے پاس روپیہ کہاں - مسرف ہمیشہ تہی دست رہتا ہے -

چھیلا - (پے - لا) (۱ - صف) ۱۱) جھلانے کی کڑی کا ٹکڑا (۲) ایک قسم کی روٹی -

چھیلا - (پے - لا) (۱ - صف) ۱۱) غلام - داس (۲) شاگرد (۳) مرید - پیر -

چھیلا ہونا - (۱ - محاورہ) مرید ہونا -

چھیل پنن - (چھیل - پنن) (ق۔ ا۔ صف) ۱۱) ہوشیاری - چالاکی -

چھیلک - (پی - کک) (۱ - صف) نظری کرنے کی علامت ناپسندیدگی کا

نشان جو کسی لفظ یا شہ پر لگایا جائے -

چھیلکا - (پے - لن) (ک) (ق۔ ا۔ صف) ۱۱) غلام - شاگرد - چھیلا -

چھیلنج - (Challenge) (پے - لنج) (رنگ - ا۔ صف) ۱۱) مقابلے کے

لیے بلانا - دعوت مبارزت (۲) منسٹری کا پکارنا -

چھیلو - (پی - لو) (۱ - صف) ۱۱) زور آور - ایک پہاڑی میوے کا نام جو آڑو

سے مشابہ ہے -

چھیٹھڑ - (پی - ٹھڑ) (۱ - صف) ۱۱) ایک قسم کی جوں جو پیٹے کپڑے میں پیدا ہوتی ہے -

چھیلی - (پے - لی) (۱ - صف) ۱۱) عورت شاگرد -

چھیلی چاٹڑ - (۱) شاگرد - مرید - معتقد (۲) ڈوکر چاکر -

چھمبر - (Chamber) (چیم - بر) (رنگ - ا۔ صف) ۱۱) کمرہ - عجب -

ایوان - ادارہ -

چھمبر آف کامرس - (Chamber of Commerce) ایوان تجارت -

چھیمین - (Champion) (چیم - پی - ان) (رنگ - ا۔ صف) ۱۱) سیر میدان - کھیل میں سب پر مسرت لے جانے والا - ٹورنامنٹ

ہیستے والا - آڈل آنے والا (۲) حمایتی - مددگار -

چھین - (۱ - صف) ۱۱) راحت - آرام - سکھ - عیش - اطمینان - قرار -

چھین آنا - (۱ - محاورہ) قرار آنا - آرام کرنا -

چھین اڑانا - (۱ - محاورہ) (۱) بے قرار کرنا - راحت سے محروم کر دینا (۲)

بہین کرنا - مزے اڑانا -

چھین مانا - (۱ - محاورہ) قرار آنا - آرام پانا -

چھین پرکھنا - (۱ - محاورہ) گل پڑنا - اطمینان ہونا -

چھین پنن - خدمت - (ق) -

چھین سے۔ (۱- تابع فعل، اُسام سے۔ بے ٹکری سے۔

چھین سے کٹنا۔ چھین سے گزرتا۔ (۱- محاورہ) زندگی پیش سے گزرتا۔ راحت اور سکون سے اوقات بسر ہوتا۔

چھین لینا۔ (۱- محاورہ) دم لینا۔ ہستا نا۔ آرام کرنا۔

چھین - (Chain) (دنگ - ۱- مٹ) زنجیر۔

چھینیں - (۱- مٹ) شکن - بک - سلوٹ۔

چھینیں بکھیں ہونا۔ چھینیں پر لڑو ہونا۔ (۱- محاورہ) تیوری پر بل ڈالنا۔

ماتھے پر شکن ڈالنا۔ ناراض ہونا۔

چھینیں - (۱- مٹ) چڑیا کی آواز۔

چھینیں بولا دینا۔ (۱- محاورہ) ہودینا۔ عاجز کر دینا۔

چھینیں (بولوں جانا) بولنا۔ (۱- محاورہ) لارنانا۔ مات کھانا۔ عاجز آجانا۔

چھینیں چھڑ کرنا۔ (۱- محاورہ) بھڑکنا۔ ٹکرا کرنا۔

چھینیں چھینیں۔ (۱- مٹ) بچوں بچوں، غل شور، غلطی تکرار، پرندوں کے چلاتے کی آواز

چھینیں چھینیں کرنا۔ (۱- محاورہ) بچوں بچوں کرنا۔ غل جمانا۔ ٹکرا کرنا۔

چھینا۔ (۱- مٹ) (۱- مٹ) ایک قسم کے چھوٹے غل کا نام۔

چھینا گوند۔ (۱- مٹ) ڈھاک کا گوند۔

چھینٹ۔ (۱- مٹ) کھڑکی۔ دو گز فرش۔

چھینٹنا۔ (۱- مٹ) (۱- مٹ) بڑی چھینٹی۔ چھینٹ۔

چھینٹی۔ (۱- مٹ) (۱- مٹ) چھینٹی۔

چھینٹ۔ (۱- مٹ) (۱- مٹ) کھڑکیوں کو کھلانے کا چھوٹا سا دانہ۔

چھینٹلا۔ (۱- مٹ) (۱- مٹ) (۱- مٹ) پرند کا وہ پتہ جس کے پر نہ نکلے ہوں (۲) اُلجھا ہوا سوت (۳) ٹوٹی ہوئی کٹلی۔

چھینند۔ (۱- مٹ) بد مصالحتی۔ گڑ بڑ۔

چھینند بازی۔ (۱- مٹ) بد مصالحتی۔

چھینندی۔ (۱- مٹ) (۱- مٹ) (۱- مٹ) چھوٹا سا ٹکڑا (۲) چڑے کے گول ٹکڑے جو گاڑی کے ڈھبے پر چمھاتے ہیں۔

چھینندگی۔ (۱- مٹ) (۱- مٹ) (۱- مٹ) چھوٹی جو ہند مرد (سرور) رکھتے ہیں۔

چھینٹنا۔ (۱- مٹ) (۱- مٹ) (۱- مٹ) چھوٹا۔ چھوٹا۔

چھینٹی پونٹے۔ (۱- مٹ) (۱- مٹ) (۱- مٹ) چھوٹے چھوٹے پونٹے۔

پونٹے (۲) بال پونٹے۔

چھینٹی۔ (۱- مٹ) (۱- مٹ) (۱- مٹ) ایک قسم کا سیند کبوتر جس پر جا بجا سیاہ رنگ ہوتے ہیں (۲) چھین کی مٹی کا برتن (۳) چھین کا رہنے والا۔ حلق میں سے نوب

چھینیں کا بال۔ بکیر چھینیں کے برتن میں بڑھ جاتی ہے۔

چھینولی۔ (۱- مٹ) (۱- مٹ) (۱- مٹ) ایک قسم کا ریشمی کپڑا۔

چھینونٹا۔ (۱- مٹ) (۱- مٹ) (۱- مٹ) چھینٹنا۔

چھینونٹے کی گرہ پیٹ میں ہونا۔ (۱- محاورہ) نہایت کم خوراک ہونا۔

پھول سونٹھ کر جینا۔

چھینونٹی۔ (۱- مٹ) (۱- مٹ) (۱- مٹ) چھینٹی۔ مور۔

چھینونٹی کا بڑ نکالنا۔ (۱- محاورہ) زوال کا زمانہ قریب آنا۔ موت کا وقت آنا۔

چھینونٹی کی آواز عرش تک۔ (۱- مٹ) (۱- مٹ) عزیب مظلوم کی آہ آسمان تک پہنچتی ہے۔

چھینونٹیاں لگنا۔ (۱- محاورہ) (۱) چھینونٹیاں چھیننا (۲) دھوپ کی تیزی کے باعث بدن سے چنگا ریاں نکلنا۔

چھینونٹیوں بھرا کباب۔ (۱- مٹ) (۱- مٹ) (۱- مٹ) بھگڑے کی چیز (۲) آل ادلا والا

مرد (۳) مصیبت زدہ آدمی۔

چھینند۔ (۱- مٹ) (۱- مٹ) (۱- مٹ) اہنتا۔ اخیر۔

حاضرات - (عامہ - من - رات) - (ع - ۱ - امث) (۱) حاضر کی جمع مؤنث - حاضر عریض
(۲) جن بھوت وغیرہ جمع کرنے کا جلسہ جو عامل کیا کرتے ہیں۔
حاضرات کرنا - (۱ - عامہ) بھوت پریت کو جمع کر کے ان سے پریشیدہ
مایل معلوم کرنا۔

حاضری - (عامہ - من - رات) - (ع - ۱ - امث) جن بھوت - پریت کو بلانے
والا عامل۔

حاضری - (عامہ - من - رات) - (ع - ۱ - امث) موجودگی (۲) دکھانا یا نقدی جو
میتت دلوں کو ان کے رشتے دار جیسے ہیں (۳) ناشتہ (۴) کتاب پیرشوال
علاقہ جس پر شہدائے کربلا خصوصاً حضرت عباس کی فاتحہ دلاتے ہیں (۵)
نام کا پیکارا جانا۔ گنتی ہونا (۶) عدالت یا مدرسہ میں حاضر ہونا۔
حاضری اصالتاً - (ع - ۱ - امث) خود حاضر ہونا۔

حاضری دینا - (۱ - عامہ) (۱) میت کے گھر کھانا یا نقدی پہنچانا (۲) ناشتہ
کھانا (۳) پگھری، دفتر یا مدرسہ میں حاضر باش کھوانا۔

حاضری لگانا - (۱ - عامہ) موجودگی کو لگانا یا لگانا کے نام کے سامنے ان کی
موجودگی کا نشان لگانا (۲) دفتر یا پگھری میں حاضر باش کھوانا۔

حاضری میں کھڑا رہنا - (۱ - عامہ) خدمت میں ہر وقت موجود رہنا۔ خدمت
کے لیے ہر وقت تیار رہنا۔

حاضریں - (عامہ - من - رات) - (ع - ۱ - امث) موجودگی (۲) حاضر کی جمع۔
حاطب اللیل - (ع - ۱ - امث) رات کو کھڑیاں جمع کرنے والا (۲) اچھے بڑے
میں تیز نہ کرنے والا۔

حاطہ - (عامہ) - (ع - ۱ - امث) حاطہ کا پگھرا ہوا۔ دیواروں سے گھرا ہوا
تقطر زمین۔

حافظ - (عامہ) - (ع - ۱ - امث) نگہبان۔ حفاظت کرنے والا۔ پاسبان۔
(۲) وہ شخص جسے قرآن پاک حفظ ہو (۳) نابینا رکنا (۴) ایران کے
مشہور صوفی شاعر شمس الدین محمد شریازی کا مخلص (۵) خدائے تعالیٰ کا مضافی
نام۔ جمع احتیاط۔ حافظین۔

حافظ حقیقی - (ع - ۱ - امث) اصلی نگہبان۔ خدائے تعالیٰ۔

حافظہ - (عامہ) - (ع - ۱ - امث) قوت یا دراشت۔ چیتا۔ یاد (۲) مؤنث،
عورت جس نے قرآن پاک حفظ کر لیا ہو۔

حاکم - (عامہ) - (ع - ۱ - امث) حکومت کرنے والا۔ سردار۔ عامل۔ ناظم (۲)
فرمان روا۔ بادشاہ (۳) آقا۔ مالک (۴) زمیندار۔ نمبر دار (۵) حکم
کرنے والا۔ جمع حکام۔ حاکمین۔

حاکم اعلیٰ (بالا) - (ع - ۱ - امث) خدائے تعالیٰ بڑا افسر۔

حاکم بالا اختیار۔ پورے اختیار والا حاکم۔ اعلیٰ جبریل۔

حاکم چون کا بھی بڑا۔ دشل چھوٹے سے چھوٹے افسرے بھی ڈرنا چاہیے۔

حاکم دیوانی - (ع - ۱ - امث) عین دین کے مقدمات سننے والا حاکم۔ سب نج۔

حاکم منقطع - (ع - ۱ - امث) منقطع کا سب سے بڑا حاکم۔ ڈرٹی کش۔

حاکم کی گاڑی اور کھوڑے کی پچھاڑی سے ڈرنا چاہیے (۱) دشل

خواہ خواہ حاکم کے سامنے نہیں آنا چاہیے۔ نہیں معلوم کس بات پر بگڑ جائے
اسی طرح کھوڑے کے پیچھے کھڑے ہونا بھی خطرے سے خالی نہیں ہوتا۔ نہیں

حاشیہ لکھنا - (۱ - عامہ) حاشیہ پریشانانا (۲) بیعت لے جانا۔ امنا فر کرنا۔
حاشیہ لگانا - (۱ - عامہ) کچھ وقت چاروں طرف بگڑ چھوڑنے کے لیے کاغذ
پر سطرین کھینچنا۔

حاشیہ نشین - (ع - ۱ - امث) پاس بیٹھنے والا (۲) مصاحب۔ معزز ملازم۔

حاصل - (عامہ) - (ع - ۱ - امث) کسی چیز کا بقیہ (۲) آمدنی۔ نقدی۔ بکری (۳)
پیداوار۔ نتیجہ۔ پھل (۴) مطلب۔ خلاصہ (۵) منافع۔ فائدہ۔

حاصل بازار - (ع - ۱ - امث) آمدنی جو منڈی یا میلے کی دوکانوں سے بطور
محمول وصول ہو۔

حاصل تفریق - (ع - ۱ - امث) مہنائی کے بعد باقی رہنے والی رقم۔

حاصل تقسیم - (ع - ۱ - امث) (۱) خارج قسمت (۲) وہ رقم جو تقسیم کے بعد
باقی رہے۔

حاصل جمع - (ع - ۱ - امث) میزان۔ وہ رقم جو جمع کرنے سے آئے۔

حاصل خیز - (ع - ۱ - امث) فزخیز زور زور۔

حاصل دار - (ع - ۱ - امث) (۱) کھانے والا۔ کلکٹر۔ افسر مال۔

حاصل زمین - (ع - ۱ - امث) (۱) زمین جس پر مالگداری دی جائے (۲) وہ زمین
جس سے پیداوار یا آمدن حاصل ہو۔

حاصل ضرب - (ع - ۱ - امث) وہ رقم جو ضرب دینے سے حاصل ہو۔

حاصل کرنا - (ع - ۱ - امث) پانا۔ پہنچنا (۲) کھانا۔ پیدا کرنا (۳)
جمع کرنا۔ اکٹھا کرنا۔

حاصل کلام - (ع - ۱ - امث) البتقر۔ الغرض۔ خلاصہ کلام۔ حاصل مقصد۔

حاصل مصدر - (ع - ۱ - امث) قواعد زبان کی اصطلاح میں وہ لفظ جس کی فعل کی کیفیت
اثر یا نتیجہ ظاہر کرے۔ مولانا مصدر میں بعد مذمت علامت مصدر کچھ تغیر کر کے
بناتے ہیں۔ مثلاً ملنا مصدر سے حاصل مصدر ملین۔

حاصل مطلب - (ع - ۱ - امث) نتیجہ۔

حاصل نہ حصول - (ع - ۱ - امث) بے فائدہ۔ فضول۔ بے نتیجہ۔

حاصل ہونا - (عامہ) (۱) عامہ) (۲) معمولی ہونا (۳) پہنچنا۔ لگنے لگنا۔ فائدہ ہونا۔

حاضر - (عامہ) - (ع - ۱ - امث) [ع - ۱ - امث] موجود۔ تیار۔ آمادہ۔ جو سامنے موجود ہو۔

جمع حاضرین۔ حضرات۔ مختار۔

حاضر باش - (ع - ۱ - امث) حاضر ہونے والا۔ موجود رہنے والا۔

حاضر باشی - (ع - ۱ - امث) موجودگی۔ حاضری۔

حاضر جواب - (ع - ۱ - امث) (۱) بات سننے ہی فوراً معمولی جواب لینے
والا (۲) فی البدیہہ جواب دینے والا۔

حاضر جوابی - (ع - ۱ - امث) موزوں جواب دینے کی صلاحیت۔

حاضر رہنا - (عامہ) موجود رہنا۔ سامنے کھڑے رہنا۔ پاس رہنا۔

حاضر صافی - (ع - ۱ - امث) کسی شخص کو عدالت میں پیش کر دینے کی ضمانت۔

حاضر کرنا - (عامہ) (۱) لانا۔ پیش کرنا۔ بلا کر لانا۔

حاضر میں محبت نہیں غیب کی تلاش نہیں - [ع - ۱ - امث] جو موجود ہے اس کے
دینے سے انکار نہیں لیکن کہیں اودھے لا کر دینے کی ذمہ داری نہیں۔

حاضر و ناظر - (ع - ۱ - امث) موجود اور دیکھنے والا۔ خدا کی صفت۔

حاضر ہونا - (عامہ) موجود ہونا۔ پیش ہو جانا۔ سامنے ہونا۔

ح۔ ب

حُبّ (ع۔ ۱۔ امت) گولی۔ دانہ (۲) تخم۔ بیج۔ جمع: حُبُوب۔
حُبّ (ع۔ ۱۔ امت) محبت۔ الفت۔ انس۔ پیار (۲) دوستی۔ آشنائی۔
(۳) توفیق۔ مرضی (۴) شوق۔ آرزو۔

حُبّ الوطن۔ (ع۔ ۱۔ امت) وطن کی محبت۔
حُبّ الوطن من الایمان۔ (ع۔ مقولہ) وطن کی محبت ایمان کا جز ہے۔
حُبّ کا مکمل۔ (ع۔ ۱۔ مذ) موہنی منتر۔ وہ دعا یا عمل جس سے باہم محبت پیدا ہو
جباب۔ (ع۔ باب) (ع۔ ۱۔ مذ) (۱) بانی کا جُلبُ (۲) ایک زور جو ہاتھ میں
پہنا جاتا ہے (۳) پیشے کے گولے جو آرائش کے لیے مکافوں میں لگاتے
میں (۴) روشنی کے باریک کنول۔
جباب آسا۔ (ع۔ ف۔ صفت) بیلے کی طرح ناپائدار۔ بیلے جیسا۔ فانی۔
جباب سا۔ (ع۔ ف۔ صفت) باریک۔ چلا۔ ذرا سا۔

جبالہ۔ (ع۔ باب۔ لہ) (ع۔ ۱۔ مذ) رشتی۔ چال۔ پھندا۔
جَبْدَا۔ (ع۔ ب۔ ذ) (ع) کلہر تھیں۔ واہ۔ جا۔ شا۔ باش۔
جَبْس۔ (ع۔ ۱۔ مذ) قید۔ بند (۲) قید خانہ (۳) گھٹن۔ ہوا کا بند ہو جانا۔
جَبْسُ البول۔ (ع۔ ۱۔ مذ) پیشاب کا بند ہو جانا یا تکلیف سے آنا۔
جَبْسُ بے جا۔ (ع۔ ف۔ ۱۔ مذ) ناچار قید۔ خلاف قانون گرفتاری۔
جَبْسُ دم۔ (ع۔ ف۔ ۱۔ مذ) سانس روکنا۔ سانس کو قابو میں رکھنا (۲)
دم کا مرض۔
جَبْسُ دواہم بجنور در پائے شور۔ (ع۔ ف۔ ۱۔ مذ) عمر قید۔
جَبْسُ ہونا۔ (۱۔ محاورہ) ہوا کا بند ہو جانا۔

جَبْسَات۔ (ع۔ سب۔ سی۔ یات) (ع۔ ۱۔ امت) قید سے نینت رکھنے والی
اشیاء خصوصاً وہ نقلیں جو قید خانے میں کوئی شاعر لکھے۔
جَبْسُ (جَبْسُ)۔ (ع۔ ۱۔ مذ) افریقہ کا ایک ملک۔ ایتھوپیا۔ زنگ بار۔ زنجبار۔
جَبْسُن۔ (ع۔ سب۔ سن) (ع۔ ۱۔ امت) جہشہ کی رہنے والی عورت (۲)
کالی گولی۔

جَبْسُ۔ (ع۔ ب۔ سب) (ع۔ ۱۔ مذ) جہش کا رہنے والا (۲) کالا گولہ۔
جَبْسُ علوہ۔ (ع۔ ۱۔ مذ) ایک قسم کا سوہن علوہ جو سیاہ ہوتا ہے۔
جَبِل۔ (ع۔ ۱۔ امت) رستی (۲) موٹا دھاگا (۳) رگ۔ جوڑ۔ اتفاق۔ اتحاد۔
جَبِلُ الشیطان۔ (ع۔ ۱۔ امت) شیطان کی رستی (۲) کنا تیا عورت۔
جَبِلُ المتین۔ (۱) مضبوط رستی (۲) پکا دیلہ۔
جَبِلُ المساکین۔ (ع۔ ۱۔ مذ) عشق بیچاں۔ ایک پیل۔
جَبِلُ الورید۔ (ع۔ ۱۔ امت) شہ رگ (۲) عازا بہت قریب۔
جَبُوب۔ (ع۔ سب) (ع۔ ۱۔ مذ) حُب کی جمع۔ گولیاں۔ دانے۔

جَبُوبَات۔ (ع۔ ب۔ یات) (ع۔ ۱۔ مذ) اناج۔ غلہ۔ جس (۲) وہ جس اور
دیگر ایشیا جو سزاوارہ زمیندار کو مفت نذر کرتا ہے۔
جَبْہ۔ (ع۔ ب۔ ۱۔ مذ) دانہ۔ غلہ (۲) رتی۔ ذرا سا۔
جَبْہ بھر۔ بالکل ذرا سا۔ تھیل مقدار۔

جَبْہ جَبْہ وصول پانا۔ (۱۔ محاورہ) کوڑی کوڑی وصول ہو جانا۔ بالکل کچھ بقیہ
نہ چھوڑنا۔
جَبْیب۔ (ع۔ سب) (ع۔ ۱۔ مذ) دوست۔ پیارا۔ معشوق۔
جَبْیبِ خُدا۔ (ع۔ ۱۔ صفت) خدا کا پیارا مراد حضور رسول خدا محمد
صلی اللہ علیہ وسلم۔

ح۔ ت

حَتْم۔ (ع۔ ۱۔ مذ) چٹیل کار۔ قانون فیصلہ (۲) ارادہ۔
حَتْمی۔ (ع۔ ف۔ صفت) حتمی۔ مضبوط۔ پکا۔

ح۔ ج

حَج۔ (ع۔ ۱۔ مذ) (۱) لغوی معنی (ارادہ کرنا) (۲) وقت مقررہ پر مکہ معظمہ میں
بیت اللہ کی زیارت کرنا اور خاص شرائط عبادت بمالانا (۳) ارکان
اسلام کا ایک رکن۔
حَجُ اصغر۔ (ع۔ ۱۔ مذ) چھوٹا حج۔ جو ایام حج کے علاوہ اور دنوں میں ادا
ہوئے۔ صوفیوں کی اصطلاح میں عام حج۔
حَجُ اکبر۔ (ع۔ ۱۔ مذ) بڑا حج۔ جس حج کا بڑا ثواب ہو۔ وہ حج جو جمعہ
کے دن ہو۔
حَجُ کا حج۔ (ع۔ ۱۔ مذ) کونج۔ لاپیشل کاربیر سے مالی فائدہ بھی حاصل ہونا۔
حَجُ یوپار اور ساتھ ہی کارِ ثواب۔

حجّاب۔ (ع۔ سب) (ع۔ ۱۔ مذ) پردہ۔ اوٹ۔ نقاب (۲) حیا۔ شرم۔ لحاظ۔
حجّاب آنا۔ (۱۔ محاورہ) شرم آنا۔ حیا آنا۔
حجّاب اٹھنا۔ (۱۔ محاورہ) پردہ اٹھنا۔ روک ہٹ جانا (۲) غیرت۔
شرم نہ ہونا۔
حجّاب لٹھنا۔ (۱۔ محاورہ) شرم دگور ہونا۔ لا ج نہ رہنا۔
حجّاب حاجز۔ (ع۔ ۱۔ مذ) پردہ شکم۔
حجّاب کرنا۔ (۱۔ محاورہ) پردہ کرنا۔ چھپنا۔ لحاظ کرنا۔
حجّابی۔ (ع۔ ج۔ بی) (ع۔ صفت) شرمیلا۔ حجّاب سے منسوب۔
حجّاج۔ (ع۔ ۱۔ مذ) حاج (ع۔ ۱۔ مذ) حاج کی جمع۔ حاجی لوگ۔
حجّار۔ (ع۔ ۱۔ مذ) حجر کی جمع۔ دیکھیے حجر۔
حجّاز۔ (ع۔ ۱۔ مذ) عرب کا وہ حصہ جس میں مکہ، مدینہ اور طائف شامل ہیں۔
حجّاز امر کرنا اسلام۔
حجّازی۔ (ع۔ ج۔ ذی) (ع۔ صفت) ملک عرب کے صوبہ حجاز کا رہنے والا۔

حجّام - (ج - جام) (ج - ا - مذ) نائی - حجامت کرنے والا - باربر -
 حجامت - (ج - جامت) (ج - ا - مٹ) سر مونڈنے کا عمل - بال کاٹنے کا
 عمل - ڈائری مونڈنے کا عمل (۲) نائی کا پیشہ (۳) صفائی - درستی -
 حجامت بنانا - (ج - ا - مٹ) سر مونڈنا - بال کاٹنا (۲) ٹوٹ لینا - ٹھک لینا -
 تچائی - (ج - جامی) (ج - ا - مٹ) سر مونڈنے کا کام - نائی کا پیشہ -
 محجب - (ج - ا - مٹ) (۱) چھپاؤ - پوشیدگی (۲) درفش سے محرومی -
 محجب - (ج - جب) (ج - ا - مذ) حجاب کی چیز - پردے -
 محبت - (ج - جت) (ج - ا - مٹ) دلیل - برهان (۲) بحث - تکرار - جھگڑا -
 محبت الاسلام - (ج - ا - مذ) (۱) اسلام کی دلیل (۲) حضرت ابام غزالی
 کا لقب -

محبت تمام کرنا - (ا - محاورہ) اعتراض کی گنجائش نہ چھوڑنا -
 محبت قاطع - (ج - ا - مٹ) مضبوط دلیل -
 محبت کرنا - (ا - محاورہ) تکرار کرنا - بحث کرنا -
 محبت لاطائل - (ج - ا - مٹ) فضول دلیل - فضول جھگڑا -
 محبت محکم - (ج - ا - مٹ) مضبوط دلیل -
 محبت متوجہ - (ج - ا - مٹ) کافی دلیل - قوی سند -
 محبت نکالنا - (ا - محاورہ) نئی بات نکالنا - اعتراض کرنا -
 محبتی سرریخ - (ج - ا - مذ) جھگڑا - لڑاکا -
 محبتی لاشقی - (ا - مٹ) مذہب پر اعتراض کرنے والا کافر جو مانا ہے تکرار بری چیز ہے

حد کرنا - ایسی بات یا ایسا کام کر گزرنے کا جس سے زیادہ ممکن نہ ہو -
 حد وصیت - وصیت کی حد جو صرف تہائی مال تک ہو سکتی ہے -
 حد ہو جانا - (ا - محاورہ) کسی کام کی انتہا ہو جانا -

حدائش - (ج - ا - مٹ) (۱) نیابین - نوجوانی (۲) شروع - آغاز
 حداد - (ج - ا - مٹ) (۱) لڑائی کا داروغہ - (۲) میل کا داروغہ -
 حدائق - (ج - ا - مذ) حدیقہ کی جمع - باغات -
 حداب - (ج - ا - مذ) ٹیلا - اچھی زمین (۲) کپڑا پن -
 حدت - (ج - ا - مٹ) (۱) گرمی کی تیزی (۲) تلوار کی تیزی -
 (۳) طبیعت کی تیزی - تندی (۲) زور - جوش -

حدث - (ج - ا - مٹ) (۱) مذکورہ ٹوٹ جانا (۲) نئی چیز - ایجاد - اجزہ -
 (۳) مذکورہ ٹوٹنے والا - پانخانہ - جمع - اصلاح -
 حدرنا - (ج - ا - مذ) حق میں کا بننا -
 حدرقہ - (ج - ا - مذ) آنکھ کا قطرہ - جمع : حدقات - امداق -
 حدوش - (ج - ا - مٹ) (۱) قدیم کا منہ - پیدائش - وجود میں آنا -
 جمع : اصلاح - حوادث -

حدود - (ج - ا - مٹ) (۱) مذکورہ حد کی جمع - حدیں -
 حدود الاربعہ - (ج - ا - مٹ) (۱) چار سمتیں یعنی مشرق - مغرب - شمال - جنوب
 (۲) وہ علاقے جو کسی علاقے کے چاروں طرف واقع ہوں -
 حدود ارضی - (ج - ا - مٹ) زمین کی حد بندی -
 حدود شرعی - (ج - ا - مٹ) شرع اسلام کے مطابق سزاؤں -
 حدی - (ج - ا - مٹ) (۱) مذکورہ عرب شہزادوں کا لقب -

حدیث - (ج - ا - مٹ) (۱) روایت (۲) حدیث جس کے راوی صحیح حدیث کے
 قیدہ - کہانی - تاریخ - سنیسا (۲) اصطلاح شرع میں حضور رسول خدا صلعم کے
 قول اور فعل کی خبر - جمع : احادیث -

حدیث حسن - (ج - ا - مٹ) وہ حدیث جس کے راوی صحیح حدیث کے
 راوی سے درج حفظ دیا وہی کم ہوں -
 حدیث بھنا - کسی کی بات کو صحیح سمجھ لینا - خواہ خواہ کسی کی بات کا یقین
 کر لینا -
 حدیث صحیح - (ج - ا - مٹ) معتبر حدیث - وہ حدیث جو قرآن اور عقل کے مطابق
 ہو اور جس کے راوی معتبر ہوں -
 حدیث صحیف - (ج - ا - مٹ) وہ حدیث جس کے راوی معتبر نہ ہوں اور
 جو مشکوٰۃ میں جاتی ہو -

حجر - (ج - ا - مٹ) (۱) مذکورہ حجر - سنگ - حج - حجاز -
 حجر اسود - خانہ کعبہ کی دیوار میں نصب سیاہ حجر جس کو حاجی بوسہ دیتے ہیں -
 حجر اہنود - (ج - ا - مٹ) ایک قسم کا پتھر جو زمروں کے بھرنے اور ٹھیک ہونے
 کے لیے بلور دروا استعمال کیا جاتا ہے -
 حجرہ - (ج - ا - مٹ) (۱) مذکورہ حجر - مسجد کے متصل چھوٹا کمرہ - خلوت خانہ -
 حجری - (ج - ا - مٹ) پتھر والا - پتھر کا بنا ہوا - سنگین -
 حجریات - (ج - ا - مٹ) پتھروں کا علم -
 حجلہ عروسی - (ج - ا - مٹ) (۱) ذہن کا پتھر کھٹ - پردہ عروس - جمع : حجال -
 حجم - (ج - ا - مٹ) حجامت - موٹائی - ضخامت -

ح - د

حد - (ج - ا - مٹ) (۱) گناہ - اُتق - سرحد (۲) انتہا (۳) اقلیدس کے مقررہ اصول
 (۴) روانہ ہونے کی جگہ (۵) احاطہ - بازو (۶) سزا جو شریعت اسلامیہ کے
 مطابق دی جائے (۷) بہت - زیادہ - جمع : حدود -
 حد باندھنا - (ا - محاورہ) حد بندی کرنا - سرحد مقرر کرنا - حد بست کرنا -
 حد بندی -

حد بلوغ - (ج - ا - مٹ) بالغ ہونے کی عمر -
 حد بلوغ کو پہنچنا - (ج - ا - مٹ) (۱) مرکب یا بالغ ہونا - سیانا ہو جانا -
 حد کھر کرنا - (ا - محاورہ) اپنی طاقت کے مطابق کرنا -
 حد پار - (ج - ا - مٹ) واجب الحق - جو شخص قانوناً قائلت کا مستحق نہ ہو -

حَدِيثِ فَضْلِي - (ع - ۱۰ - مٹ) اس کام کی حدیث جو پیغمبر اسلام صلعم نے کیا ہو۔
 حَدِيثِ قَوْلِي - (ع - ۱۰ - مٹ) اس کام یا بات کی حدیث جس کے متعلق پیغمبر صلعم نے حکم دیا ہو۔
 حَدِيثِ دُرُكُنَا كَهَيْجِنَا - (۱ - ع - ۱۰ - مٹ) وہ حدیث جس کی سند میں آدمی سے آخر تک ایک ہی راوی ساقط نہ ہوا ہو۔
 حَدِيثِ مُتَوَاتِرٍ - (ع - ۱۰ - مٹ) وہ حدیث جسے وہ بکثرت لوگ بیان کریں جن کے لیے جھوٹ بولنا امر محال ہو۔

حَدِيثِ مُرْسَلٍ - (ع - ۱۰ - مٹ) وہ حدیث جس کا تابعی سے اوپر راوی ساقط ہو۔
 حَدِيثِ مَبْرُورٍ - (ع - ۱۰ - مٹ) وہ حدیث جس کی سند رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آئی ہو۔
 حَدِيثِ شَهْرٍ - (ع - ۱۰ - مٹ) وہ روایت صحیح جس کو ہر طبقہ میں کم سے کم تین راویوں نے ضروری بیان کیا ہو۔ اس میں یہ ضروری نہیں کہ راویوں کا سلسلہ اول سے آخر حدیث منقطع - (ع - ۱۰ - مٹ) وہ حدیث جس کی سند میں ایک یا زیادہ راوی مختلف مقامات سے ساقط ہوں۔
 حَدِيثِ مَوْضُوعٍ - (ع - ۱۰ - مٹ) بنائی ہوئی حدیث جس کی کوئی حقیقت نہ ہو۔
 حَدِيدٌ - (ع - ۱۰ - مٹ) لڑھکے والا۔
 حَدِيثِيَّةٌ - (ع - ۱۰ - مٹ) حدیث کا نام۔

حَرَامَةٌ - (ع - ۱۰ - مٹ) حرام کی حالت۔
 حَرَامَةٌ - (ع - ۱۰ - مٹ) حرام کی حالت۔
 حَرَامَةٌ - (ع - ۱۰ - مٹ) حرام کی حالت۔
 حَرَامَةٌ - (ع - ۱۰ - مٹ) حرام کی حالت۔

حَدِيثِ مُرْسَلٍ - (ع - ۱۰ - مٹ) وہ حدیث جس کا تابعی سے اوپر راوی ساقط ہو۔
 حَدِيثِ مَبْرُورٍ - (ع - ۱۰ - مٹ) وہ حدیث جس کی سند رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آئی ہو۔
 حَدِيثِ شَهْرٍ - (ع - ۱۰ - مٹ) وہ روایت صحیح جس کو ہر طبقہ میں کم سے کم تین راویوں نے ضروری بیان کیا ہو۔ اس میں یہ ضروری نہیں کہ راویوں کا سلسلہ اول سے آخر حدیث منقطع - (ع - ۱۰ - مٹ) وہ حدیث جس کی سند میں ایک یا زیادہ راوی مختلف مقامات سے ساقط ہوں۔
 حَدِيثِ مَوْضُوعٍ - (ع - ۱۰ - مٹ) بنائی ہوئی حدیث جس کی کوئی حقیقت نہ ہو۔
 حَدِيدٌ - (ع - ۱۰ - مٹ) لڑھکے والا۔
 حَدِيثِيَّةٌ - (ع - ۱۰ - مٹ) حدیث کا نام۔

ح - ذ

حَرَامٌ خَوْرِيٌّ - (ع - ۱۰ - مٹ) حرام کی حالت۔
 حَرَامٌ زَاوِدٌ - (ع - ۱۰ - مٹ) حرام کی حالت۔
 حَرَامٌ زَاوِدٌ - (ع - ۱۰ - مٹ) حرام کی حالت۔
 حَرَامٌ زَاوِدٌ - (ع - ۱۰ - مٹ) حرام کی حالت۔

حَدَاقَتٌ - (ع - ۱۰ - مٹ) حدیث کی حالت۔
 حَدَدٌ - (ع - ۱۰ - مٹ) حدیث کی حالت۔
 حَدْفٌ - (ع - ۱۰ - مٹ) حدیث کی حالت۔
 حَدْفٌ - (ع - ۱۰ - مٹ) حدیث کی حالت۔

ح - ر

حَرَامٌ خَوْرِيٌّ - (ع - ۱۰ - مٹ) حرام کی حالت۔
 حَرَامٌ زَاوِدٌ - (ع - ۱۰ - مٹ) حرام کی حالت۔
 حَرَامٌ زَاوِدٌ - (ع - ۱۰ - مٹ) حرام کی حالت۔
 حَرَامٌ زَاوِدٌ - (ع - ۱۰ - مٹ) حرام کی حالت۔

حَرَامٌ خَوْرِيٌّ - (ع - ۱۰ - مٹ) حرام کی حالت۔
 حَرَامٌ زَاوِدٌ - (ع - ۱۰ - مٹ) حرام کی حالت۔
 حَرَامٌ زَاوِدٌ - (ع - ۱۰ - مٹ) حرام کی حالت۔
 حَرَامٌ زَاوِدٌ - (ع - ۱۰ - مٹ) حرام کی حالت۔

حرام ہونا۔ (ا۔ معادہ) ناجائز ہونا۔ ممنوع ہونا (۲) تلخ ہونا۔ نفرت اور پرہیز کے قابل ہونا۔
 حرامی۔ (ح۔ ح۔ سی) (ح۔ ا۔ مذ) (۱) چور۔ شرور۔ بدفئات (۲) لفظ حرام۔ زنا کی اولاد۔
 حرب۔ (ح۔ ا۔ مٹ) لڑائی۔ جنگ۔ کارزار۔
 حرب گاہ۔ (ح۔ ف۔ ا۔ مٹ) میدان جنگ۔
 حربا۔ (ح۔ با) (ح۔ ا۔ مذ) گرگٹ۔
 حربہ۔ (ح۔ ہ) (ح۔ ا۔ مذ) (۱) آلا جنگ۔ جنگی ہتھیار (۲) پرہیزی۔ نمازیانہ۔
 حربہ کرنا۔ (ا۔ عا) (ا۔ مذ) (۱) ہار کرنا۔ ہل کرنا۔
 حربے ضربے۔ ہر وقت۔ گھڑی گھڑی۔ بار بار۔
 حرج۔ (ح۔ ر) (ح۔ ا۔ مذ) (۱) حکی۔ سختی (۲) نقصان۔ ضرر (۳) تفتیش اوقات۔ دیر۔ کمی۔
 حرز۔ (ح۔ ا۔ مذ) (۱) جانے پناہ۔ ملجا (۲) تعویذ۔ جنت۔ منتر۔ جمع، اجاز۔
 حرز جاں بنانا۔ (ا۔ عا) (ا۔ مذ) بہت عزیز رکھنا۔ بے حد احتیاط سے رکھنا۔
 حرص۔ (ح۔ ا۔ مٹ) لالچ۔ طمع (۲) خواہش۔ تمنا۔ رغبت۔ ہوس۔
 حرص کرنا۔ (ا۔ عا) (ا۔ مذ) لالچ کرنا۔ خواہش کرنا۔ تمنا رکھنا۔
 حرصا حرصی۔ (ح۔ صا۔ جری) (ح۔ ا۔ مٹ) دیکھا دیکھی۔ اوروں کو دیکھ کر خود بھی وہی کام کرنے لگنا یا اس چیز کی خواہش کرنا۔
 حرصی۔ (ح۔ صی) (ح۔ ا۔ مذ) لالچی۔ طامع۔ حریص۔
 حرصی سود۔ (ا۔ مذ) دوسروں کی دیکھا دیکھی لالچ میں آجانے والا۔
 حرف۔ (ح۔ ا۔ مذ) لغوی معنی طرف۔ کنارہ۔ پہاڑ کی چوٹی (۲) آواز کو ظاہر کرنے والا نشان۔ حرف تہجی (۳) علم صرف میں وہ کلمہ جس کے معنی دوسرے لفظ کے ساتھ بغیر پورے سمجھ میں نہ آسکے (۴) بات۔ لفظ۔ سخن (۵) نفس۔ عیب۔ طنز۔ جمع، حروف۔
 حرف آشتا۔ (ح۔ ف۔ صفت) جو حقوڑا بہت پڑھ سکے۔ بتدی۔ نو آموز۔
 حرف آنا۔ (ا۔ عا) (ا۔ الزام) لگنا۔ عیب لگنا (۲) حقوڑا سا لگنا پڑھنا آنا۔
 حرف اٹھانا۔ (ا۔ عا) (ا۔ مذ) پڑھ لینا۔ شناخت میں آنا (۲) حرف کو اس طرح چھیننا کہ نشان باقی نہ رہے۔
 حرف اڑانا۔ (ا۔ عا) (ا۔ مذ) حرف کو مٹانا۔
 حرف انداز۔ (ح۔ ف۔ صفت) فریبی۔ مکار۔ چالاک۔
 حرف استغنا۔ (ح۔ ا۔ مذ) وہ لفظ جو ایک چیز کو دوسری سے جدا کرے۔
 شکر۔ جزا۔ سوا۔
 حرف استدراک۔ (ح۔ ا۔ مذ) وہ لفظ جو پہلے جملہ کے شبہ کو دور کرے۔
 بیسے۔ لیکن۔ البتہ۔
 حرف استعہنام۔ (ح۔ ا۔ مذ) سوال کے لیے استعمال ہونے والا لفظ جیسے کیا۔ کب۔
 حرف بحرف۔ ایک ایک حرف۔ لفظ بلفظ۔
 حرف بنانا۔ حرف کو درست کرنا۔ حرف کو قاعدے کے مطابق کرنا۔
 (۲) چیلے کے پتھر پر حرف درست کرنا (۳) حرف کو کھودنا (۴) حرف بدلنا۔ جھیل سازی کرنا۔ خط میں تبدیلی کرنا۔
 حرف پڑھنا۔ (ا۔ عا) (ا۔ مذ) غلطی پڑھنا۔ ٹوکنا۔ نکتہ چینی کرنا۔

حرف پچھانا۔ (ا۔ عا) (ا۔ مذ) حروف میں تیز کرنا۔ پڑھ لینا۔ حرف تہجی کو ذہن نشین کرنا۔
 حرف تاکید۔ (ح۔ ا۔ مذ) وہ لفظ جو کلام پر زور دینے کے لیے آئے۔
 جیسے ضرور۔ ہرگز۔
 حرف تردید۔ (ح۔ ا۔ مذ) وہ لفظ جو کسی بات کو رد کرنے کے لیے آئے۔
 جیسے چاہے۔ خواہ۔
 حرف تشبیہ۔ (ح۔ ا۔ مذ) وہ لفظ جو ایک چیز سے دوسری چیز کی مانند ظاہر کرے مثلاً ایسا۔ ویسا۔ جیسا۔
 حرف جہار (جہر) ربط۔ (ح۔ ا۔ مذ) وہ لفظ جو کسی فعل کو اسم سے ملائے جیسے سے۔ پر۔ میں۔ تک۔
 حرف پھین۔ (ح۔ ف۔ ا۔ مذ) نکتہ پھین (۲) حرف شناس۔ ایچ۔ فونان۔
 حرف رکھنا۔ (ا۔ عا) (ا۔ الزام) لگانا۔
 حرف زن۔ (ح۔ ف۔ صفت) باتیں کرنے والا۔ بولنے والا۔
 حرف ساکن۔ (ح۔ ا۔ مذ) وہ حرف جس پر اعراب نہ ہو۔
 حرف مشروط۔ (ح۔ ا۔ مذ) وہ لفظ جو کسی کام کو دوسرے کام پر موقوف کرنے کے لیے لایا جائے جیسے اگر۔ جب۔ ہر چند۔
 حرف شکایت۔ (ح۔ ا۔ مذ) شکوہ شکایت کی بات۔
 حرف شناس۔ ایچ۔ فونان۔ حروف تہجی کو پہچان لینے والا۔
 حرف شنوا۔ (ح۔ ف۔ صفت) وہ شخص وہ سنے ہوئے سے کہا جائے۔
 حرف عطف۔ (ح۔ ا۔ مذ) وہ حرف جو دو کلموں یا جملوں کو باہم ملانے مثلاً اور۔ و۔ پھر۔
 حرف علت۔ تین حروف ہیں۔ واؤ۔ الق۔ یا۔
 حرف گیری۔ (ح۔ ف۔ مٹ) نکتہ چینی۔ عیب نکالنا۔
 حرف لانا۔ (ا۔ عا) (ا۔ الزام) لگانا۔ عیب لگانا۔
 حرف متحرک۔ (ح۔ ا۔ مذ) وہ حرف جس پر اعراب ہوں۔
 حرف مطلب۔ (ح۔ ف۔ ا۔ مذ) مطلب کی بات۔
 حرف نڈا۔ (ا۔ مذ) وہ لفظ جو بولنے کے لیے استعمال ہو جیسے اے۔ او۔
 حرف نڈیہ۔ (ح۔ ا۔ مذ) وہ حرف جو افسوس کے لیے بولا جائے مثلاً مائے۔ وائے۔ آہ۔
 حرف لغی (بھی)۔ (ح۔ ا۔ مذ) جس میں انکار پایا جائے جیسے نہ۔ نہیں۔
 حرف نڈھٹھ سکنا۔ (ا۔ عا) (ا۔ مذ) پڑھ نہ سکنا۔ پڑھنا نہ جانا۔
 حرف وحکایت۔ گو شکوہ۔ بات چیت۔
 حرفت۔ (ح۔ ف۔ مٹ) (ح۔ ا۔ مٹ) پیشہ۔ کسب۔ کاریگری (۲) ہنر۔ علم۔ (۳) چالاک۔ عیاری۔ مکاری۔
 حرفت باز۔ (ح۔ ف۔ ا۔ مذ) چالاک۔ عیار۔ مکار۔
 حرفتی۔ (ح۔ ف۔ قی) (ح۔ ف۔ صفت) چالاک۔ عیار۔
 حرفہ۔ (ح۔ ف۔ مٹ) (ح۔ ا۔ مذ) پیشہ۔ مہنت۔ ہنر۔ کاریگری۔
 حرفت۔ (ح۔ ف۔ مٹ) (ح۔ ا۔ مٹ) عین۔ سوزش (۲) جوش۔ حرارت۔
 حرکات۔ (ح۔ ا۔ مٹ) (ح۔ ا۔ مذ) حرکت کی جمع۔ حرکتیں۔
 حرکات و سکنات۔ (ح۔ ا۔ مٹ) (ا۔ مٹ) بیٹھنا۔ چلنا پھرنا (۲) عادت و ملوک

خزم۔ (ح۔ ا۔ مذ) احتیاط۔ مال اندیشی۔ مستعدی۔ خبرداری۔
 تخنیر (ح۔ صفت) دیکھیے المیہ (اردناک المیہ)
 تخزن۔ (ح۔ ا۔ مذ) رنج۔ طال۔ بخر۔ جمع، اتران۔
 خزین۔ (ح۔ بزین) (ح۔ صفت) فلکین۔ رنجیدہ۔ طول۔ جمع، خزنا۔ جزان۔

ح۔ س

حس۔ (ح۔ ا۔ مٹ) (ا) محسوس کرنے کی قوت (۲) جنبش۔ حرکت۔
 جمع، حواس۔

حس باطنی۔ (ح۔ ا۔ مٹ) محسوس کرنے کی اندرونی قوت۔
 حس ظاہری۔ (ح۔ ا۔ مٹ) محسوس کرنے کی بیرونی قوت جیسے باصرہ
 دیکھنے کی اور سامعہ سننے کی قوت۔
 حس مشترک۔ (ح۔ ا۔ مٹ) ایک قوت جو حواس خمسہ کے ذریعے محسوس
 کی ہوئی صورتوں کو قبول کر کے ایک خزانے میں جمع کر دیتی ہے۔ یہ
 خزانہ خیال ہے۔ فعل عامر۔

حساب۔ (ح۔ سب) (ح۔ ا۔ مذ) (ا) گنتی (۲) شمار (۳) علم ریاضی کی ایک شاخ
 (۴) زرخ۔ بھاؤ۔ قیمت (۵) قاعدہ۔ ڈھنگ۔ طور (۶) لین دین (۷) سمجھ
 (۸) میزان۔ بوز (۹) حالت۔ کیفیت۔ جمع، حسابات۔
 حساب برابر کرنا۔ (ا۔ محاورہ) جمع خرچ نکلانا۔ فیصلہ ہونا۔ کام ختم کر دینا۔
 حساب بنانا۔ (ا۔ محاورہ) آمد و خرچ کا حساب تیار کرنا۔ بل بنانا۔
 حساب بے باق کرنا۔ (ا۔ محاورہ) لین دین کا فیصلہ کر دینا۔ اگلا پھیلنا سب
 حساب بچا کر دینا۔ پورا قرضہ اٹا کر دینا۔

حساب پوچھنا۔ (ا۔ محاورہ) حساب مانگنا۔ آمد و خرچ کا حساب لینا بحاسبہ
 کرنا۔ پوچھ پچھ کرنا۔
 حساب پھیلانا۔ (ا۔ محاورہ) شمار کرنا۔ حساب لگانا۔
 حساب چوڑانا۔ (ا۔ محاورہ) بوز لگانا۔ جمع کرنا۔ میزان دینا۔ متفرق رقم
 کو ایک جگہ لے آنا۔

حساب جو جو بخشش سوسو۔ (مث) معاملہ صاف ہونا چاہیے جس
 کوڑی کوڑی کا ہونا چاہیے۔ بخشش اور انعام کا اختیار ہے جس قدر
 چاہیں دے دیں۔

حساب دار۔ (ح۔ ف۔ صفت) اکاؤنٹ۔ کسی دوکان یا بینک میں
 حساب رکھنے والا (۲) وہ شخص جس نے بینک میں اپنا حساب کھولا
 ہوا ہو۔

حساب دان۔ (ح۔ ف۔ صفت) علم حساب کا ماہر۔
 حساب دو سال دروول (فیش) دوست دل ہی میں حساب کر لیتے
 ہیں۔ زبان پر نہیں لاتے۔ جو دے دیا سو دے دیا اور جو مل گیا
 سوں ل گیا۔

حساب دینا۔ (ا۔ محاورہ) حساب بسمانا۔ چارج دے دینا۔ آمد و
 خرچ بتا دینا۔
 حساب رکھنا۔ (ا۔ محاورہ) آمد و خرچ لکھتے رہنا۔ رجسٹر میں درج کرتے

رہنا (۲) آشنائی رکھنا۔

حساب سے۔ خیال سے۔ رائے میں۔ بھاؤ یا شرح سے۔ انداز سے۔
 حساب سے باہر۔ (اصف) بے شمار۔ اُن گنت۔ بے اہتہا۔

حساب کتاب۔ (ح۔ ا۔ مذ) لین دین۔ ربط ضبط۔ میل ملاپ۔
 حساب کتاب میں رہنا۔ (ا۔ محاورہ) آمدنی سے زیادہ خرچ نہ کرنا۔

حساب کرنا۔ (ا۔ محاورہ) حساب سمجھنا (۲) بے باق کرنا۔

حساب لڑانا۔ آشنائی ہونا۔ آنکھ لڑجانا۔

حساب لگانا۔ (ا۔ محاورہ) حساب پھیلانا (۲) آشنائی کرنا۔ دوستی کا ٹھکانا۔
 (۳) نوکری کرنا (۴) سازش کرنا (۵) حساب کرنا۔

حساب لینا۔ (ا۔ محاورہ) حساب پوچھنا۔ پرتال کرنا۔ آمد و خرچ کا جائزہ لینا۔
 حساب میں جمع کرنا۔ (ا۔ محاورہ) جس نے ادائیگی کی ہے اس کے حساب میں
 لکھ لینا۔ کھاتے میں پڑھانا۔

حساب میں لینا۔ (ا۔ محاورہ) حساب میں شمار کرنا۔ معاملے کے سبب پہلوں
 پر نور کر کے سمجھ لینا۔

حساب میں نہ ہونا۔ (ا۔ محاورہ) کوئی حیثیت نہ رکھنا۔

حساب نویس۔ (ح۔ ف۔ صفت) حساب رکھنے والا۔ اکاؤنٹنٹ۔

حساب نویس۔ (ح۔ ف۔ ا۔ مٹ) حساب کتاب لکھنا۔

حساب ہو جانا۔ (ا۔ محاورہ) نوکری سے برطرف ہو جانا۔

حساب ہونا۔ (ا۔ محاورہ) بقا یا نکال لینا۔ از روئے حساب یہ معلوم کرنا کہ
 کیا لینا دینا ہے (۲) قیامت کے دن اچھے بڑے اعمال کی جاچ ہونا۔

حسابی۔ (ح۔ سا۔ بی) (ا) صفت (۲) حساب کی بات۔ حساب کے متعلق۔
 قاعدے کی بات (۳) حساب میں ماہر۔

حساد۔ (حس۔ ساد) (ح۔ ا۔ مذ) حاسد کی جمع۔ بہت سے حاسد۔

حساس۔ (حس۔ ساس) زیادہ محسوس کرنے والا (۲) ہوشیار۔ زیرک۔ ذکی الحس۔
 حشام۔ (حس۔ سام) (ح۔ ا۔ مٹ) تلوار۔ شمشیر بڑاں۔

حسان۔ (حس۔ سان) (ح۔ ا۔ مذ) (۱) بہت اچھا۔ بڑا عقلمند (۲) ہمدردی
 کے مشہور شاعر حضرت حسان بن ثابت۔

حسب۔ (ح۔ ب) بموجب۔ مطابق۔ موافق۔

حسب اتفاق۔ (ح) اتفاقاً۔ ناگاہک۔

حسب ارشاد حسب الامر حسب الحکم۔ (ح) کہنے کے مطابق۔ حکم
 کے بموجب۔

حسب توفیق۔ (ح) اپنی حیثیت کے مطابق۔

حسب حال۔ (ح) حال کے مطابق۔ موقع کے مناسب۔

حسب دستور۔ (ح۔ ف) قاعدے کے مطابق۔ رسم درواج کے مطابق۔
 حسبِ دل خواہ۔ (ح۔ ف) جیسا کہ دل چاہتا ہے۔ دل نشاہ کے مطابق۔

حسب ذیل۔ (ح) نیچے دی ہوئی تفصیل کے مطابق نیچے لکھے ہوئے
 کے مطابق۔

حسب ضابطہ۔ حسب قاعدہ۔ (ح) قاعدے کے مطابق قانون کی رو
 سے جیسا کہ قانون اور قاعدے کا نشانہ ہے۔
 حسب فرمائش۔ (ح۔ ف) کہنے کے مطابق۔ فرمائش کے مطابق۔

حَسْبُ مُرَاد - (ع.ف) آرزو و خواہش کے مطابق۔
حَسْبُ مَعْمُول - (ع.ف) دستور کے مطابق جیسا کہ روزانہ کوئی کرتا ہے۔
حَسْبُ مَقْدُور - اپنی بساط اور حیثیت کے مطابق۔
حَسْبُ مَوْجِع - موقع کے مطابق۔ جیسا موقع ہو۔
حَسْبُ - (ع.سب) (ع.۱) مذ [نسل - سلسلہ خاندان (۲) ماں کی طرف کا سلسلہ (۳) ماں دہاہ کا شرف (۴) دینی بزرگی۔
حَسْبُ نَسَب - (ع.۱) مذ [ماں باپ کا خاندانی سلسلہ۔
حَسَد - (ع.سَد) (ع.۱) مذ [جن کسی کا زوال چاہنا (۲) عداوت۔
بَغْض - کینہ۔
حَسْرَت - (ع.س.رَت) (ع.۱) مِث [افسوس کسی چیز کے نہ ملنے کا افسوس۔ پشیمانی (۲) آرزو۔ ارمان۔ شوق۔
حَسْرَتِ الْاُودِه - (ع.ف) صفت حسرت بھرا۔ غمزہ۔
حَسْرَتِ اَنَا - (ع.م.اودہ) آرزو ہونا۔ افسوس آنا۔
حَسْرَتِ اَبَاَت - (ع.صفت) رنج وہ۔ افسوسناک۔
حَسْرَتِ اَتِيْخِر - (ع.ف) صفت جس کو دیکھ کر دل کے ارمان اُبھر آئیں۔
حَسْرَتِ اَبَاَتِي - (ع.ف) صفت جس کو دیکھ کر افسوس ہو۔
حَسْرَتِ بَاقِي رَهْمَا - (ع.م.اودہ) ارمان پورا نہ ہونا۔ دل کی دل ہی میں رد جانا۔
حَسْرَتِ بَرْنَا حَسْرَتِ طَيْمَنَا - (ع.م.اودہ) حسرت ظاہر ہونا۔ افسوس کے آثار پائے جانا۔
حَسْرَتِ بَهْرَا - (ع.صفت) بڑا ارمان۔ بڑا شوق۔
حَسْرَتِ لَعَا - (ع.م.اودہ) دل کی آرزو دل میں ہی رہنا۔ خواہش پوری نہ ہونا۔
حَسْرَتِ نَكَاَلَا - (ع.م.اودہ) ارمان پورے کرنا۔ خواہش یا آرزو پوری کرنا۔
حَسَن - (ع.ح.سَن) (ع.صفت) (ع.۱) مذ [نیک۔ اچھا۔ خوب صورت (۲) خوبصورتی۔ نیکی۔ بھلائی (۳) حضرت علیؑ کے بڑے صاحبزادے کا نام۔
حَسَنَات - (ع.ح.سَنَات) (ع.۱) مِث [نیکیاں۔ بھلائیوں۔
حَسَن - (ع.۱) مذ [(۱) خوبی۔ عمدگی۔ بھلائی (۲) خوش نمائی۔ دل رُبائی (۳) خوبصورتی۔ جمال (۴) رونق۔ جون۔ بہار۔
حَسَن اَرَا - حُن کی شان بڑھانے والی۔
حَسَن اِنْفَاق - (ع.۱) مذ [خوش قسمتی۔ اچھا موقع۔
حَسَن اِخْلَاق - (ع.۱) مذ [خوش خلقی۔ لطیفی۔ تواضع۔
حَسَن اِنْتِقَام - (ع.۱) مذ [انتقام کی خوبی۔ خوش انتقامی۔
حَسَن بِيَان - (ع.۱) مذ [خوش بیانی۔ کسی واقعہ یا منظر کو موثر طریق سے بیان کرنے کا صفت۔
حَسَن تَدْبِيْر - (ع.۱) مذ [خوش تدبیری۔ عمدہ مشورہ۔
حَسَن تَعْلِيْل - (ع.۱) مذ [ایک صنعت کا نام ہے۔ شاعر اپنے تمثیل سے کوئی ایسے وجہ رعلت، کسی چیز کی یا امر کی پیش کرتا ہے جو دراصل اُس کی وجہ نہیں ہوتی۔
حَسَن خَدَاوَاد - (ع.ف) (ع.۱) مذ [قدتی حُن۔

حَسَن خُطَاب - خوش کلامی۔ خوش بیانی۔ موثر تقریر کرنے کی خوبی۔
حَسَن خِيَمَر - (ع.ف) صفت حَسَن پیدا کرنے والا۔ وہ خطہ جہاں حسین لوگ پیدا ہوتے ہیں۔
حَسَن دَاوَن - (ع.۱) مذ [چھوٹا پاؤں۔ چھوٹی سی پیاری۔
حَسَن طُهْلَانَا - (ع.م.اودہ) حَسَن میں زوال آجانا۔ جوانی کا گزر جانا۔
حَسَن سُلُوْكَ - (ع.۱) مذ [برتاؤ کی اچھائی۔ اچھا رویہ۔ اچھا اخلاق۔
حَسَن صَبِيْح - (ع.۱) مذ [دلکش گوارنگ۔
حَسَن طَلَب - (ع.۱) مذ [لطیف اشارہ کر کے کوئی شے مانگنا (۲) مانگنے کا اچھا پیرایہ۔
حَسَن ظَن - (ع.۱) مذ [نیک گمان۔ کسی کے متعلق اچھا خیال۔
حَسَن قَبُوْل - (ع.۱) مذ [اچھے طریقے سے قبول کرنا۔ پسندیدہ۔ من بھاؤنا۔
حَسَن كَلُوْمُوْز - (ع.۱) مذ [ہنایت اسطے حَسَن۔
حَسَن كِنْدَم كُوْل - گورا۔ گہوں کی سی رنگت والا۔
حَسَن مَحْضَل - محض کی رونق۔ (ع.۱) حق۔
حَسَن مَطْلَع - (ع.ف) (ع.۱) مذ [مزل یا قیدے کا دوسرا مطلع۔
حَسَن مَطْلَق - (ع.۱) مذ [جمال خداوندی۔
حَسَن مَلِيْح - (ع.۱) مذ [نمکین۔ ملاحمت والا حَسَن۔ گندم کوں حَسَن۔
حَسَن مَعَاظِم - (ع.۱) صفت [پین دین کی صفائی۔
حَسَن يُوْسُف - عمدہ رعبے کا حَسَن۔ حضرت یوسفؑ کا حَسَن۔
حَسَنَة - (ع.ح.سَنَة) (ع.۱) مِث [نیک۔ نیکی۔ بھلائی۔ جمع : حَسَنَات۔
حَسَنِي - (ع.ح.سَنِي) (ع.۱) مذ [امام حَسَن سے نسبت رکھنے والا۔
حَسَنِي اِجْمَاعِي - (ع.ح.سَنِي) (ع.۱) مِث [حَسَن کا موث۔ اچھی۔ خوب صورت۔
حَسَنِيْن - (ع.۱) مذ [امام حَسَن اور امام حُسَيْن۔
حَسُوْد - (ع.ح.سُوْد) (ع.۱) مذ [بدخواہ۔ بڑا حسد کرنے والا۔
حَسُوْدِي - (ع.ح.سُوْدِي) (ع.۱) مذ [حساد کی جمع۔
حَسِيْب - (ع.ح.سِيْب) (ع.صفت) حساب کرنے والا۔ بزرگوار۔ حساب لینے والا۔ خدا تعالیٰ کا صفاتی نام۔
حَسِيْبِيْن - (ع.ح.سِيْبِيْن) (ع.صفت) خوبصورت۔ نیک۔
حَسِيْبِيْنِي - (ع.ح.سِيْبِيْنِي) (ع.۱) مذ [حضرت علیؑ کے چھوٹے صاحبزادے جنہوں نے ۱۰ محرم اکرام کو میدان کربلا میں شہادت پائی۔
حَسِيْبِيْن مَبْد - (ع.ف) (ع.۱) مذ [چاندی کی بے گیندہ دو انگلیاں جو روز عاشورا بچوں کے ہاتھ میں پہناتے ہیں۔
حَسِيْبِيْنَة - (ع.ح.سِيْبِيْنَة) (ع.۱) مِث [خوبصورت عورت۔
حَسِيْبِيْنِي - (ع.ح.سِيْبِيْنِي) (ع.۱) مذ [حضرت امام حسین سے منسوب۔
حَسِيْبِيْنِي بَلْبَل - ایک خاص قسم کی مہل جس کا جسم سفید اور سر پر سیاہ رنگ کی پوٹی ہوتی ہے۔
حَسِيْبِيْنِي كَا نَهْرَا - (ع.۱) مذ [کانی ٹاٹ کا ایک رنگ جس میں ساتوں رنگ ملتے ہیں۔

ح-ش

حشر - (ح۔ا۔ذ) ایک مقام پر اجتماع (۱) قیامت۔ (۲) روزِ حساب (۳) شور و غل۔
 عونا۔ ہنگامہ۔ فتنہ۔ آفت۔
حشر برپا کرنا - حشر توڑنا۔ (۱) محاورہ (۲) آفت ڈھانا۔ فساد اٹھانا۔ اُدھم چانا۔
 (۳) ہنایت خفا ہونا۔ جھجھلانا (۴) بہت رونا پینا۔ کہرام مچانا۔
حشر توڑنا - (۱) محاورہ جھجھلانا (۲) آفت ڈھانا۔
حشر ڈھانا - (۱) محاورہ آفت برپا کرنا۔
حشر کا وعدہ - جس وعدے کی زندگی بھر پورا ہونے کی امید نہ ہو۔
حشر میں اٹھنا - (۱) محاورہ اسلامی عقیدے کے مطابق قیامت کے دن مردوں کا زندہ ہو کر اٹھنا۔
حشر ہونا - (۱) محاورہ (۲) قیامت پیا ہونا۔ شور و غل ہونا (۳) انجام ہونا۔
 نیچہ بٹھکانا۔
حشرات - (ح۔ش۔ذ) (ح۔ا۔ذ) چھوٹے چھوٹے ریٹھنے والے
 کیڑے کوڑے (۲) ہنگامہ۔ شور و غل۔
حشرات الارض - (ح۔ا۔ذ) برساتی کیڑے کیڑے کوڑے۔ سانپ۔
 بچھو دینرہ۔
حشرہ - (ح۔ا۔ذ) ریٹھنے والا کیڑا۔
حشری - (ح۔ش۔ذ) (ح۔ص۔ف) بیبیت ناک (۲) شہر بگھوڑا۔
حشری باغی - (ح۔ا۔ذ) وہ باغی جو اوروں کی دیکھا دیکھی بغاوت کر دے۔
حشریات - (ح۔ش۔ذ) (ح۔ا۔ذ) کیڑوں کوڑوں کا علم۔
 (انجک) (Entomology)
حشیفہ - (ح۔ش۔ذ) (ح۔ا۔ذ) آلاتِ ساس کی سپاری۔
حشیم - (ح۔ش۔م) (ح۔ا۔ذ) نوکر چاکر۔ خدمت گار۔
حشیم و خدم - (ح۔ا۔ذ) نوکر چاکر۔ ملازمان۔
حشمت - (ح۔ش۔م) (ح۔ا۔ذ) نوکر چاکر۔ خدمت گاروں کا انبوه۔
 (۲) بزرگی۔ عظمت۔ مرتبہ (۳) دہدہ۔ شان و شوکت (۴) ساز و سامان
 فرخ و لشکر۔ جلوس۔ سواری۔
حشمت - (ح۔ش۔م) (ح۔ا۔ذ) (۱) جوڑو۔ قبیلہ (۲) اونٹ کی ہنار۔
حشو - (ح۔ا۔ذ) بھرتی۔ اندھ بھرنے کی چیز (۲) زائد کلام۔ بیہودہ کلام۔
 بے ضرورت گفتگو۔
حشیش - (ح۔ش۔ش) (ح۔ا۔ذ) (۱) موٹی گھاس (۲) بھنگ۔

حفت (بکسر اول)
حصہ - (ح۔ا۔ذ) گھیرنا۔ احاطہ کرنا۔ منحصر کرنا۔
حصص - (ح۔ص۔ض) (ح۔ا۔ذ) حصہ کی جمع۔ حصے۔
حصن - (ح۔ا۔ذ) قلعہ۔ جہانے پناہ (۲) تراست (۳) جھتیار (۴) تباہی۔
حصن حصین - (ح۔ا۔ذ) مضبوط قلعہ (۲) ذلیفوں اور دُھالوں کی ایک
 کتاب کا نام۔
حصول - (ح۔ح۔و) (ح۔ا۔ذ) حاصل۔ نائدہ۔ نفع۔
حصولی یا تجزیہ - (ح۔ا۔ذ) زبردستی لینا۔
حصول مرام - (ح۔ا۔ذ) خواہش کا پورا ہونا۔ مُراد پوری ہونا۔
حصہ - (ح۔ص۔ض) (ح۔ا۔ذ) (۱) ٹکڑا (۲) بانٹ (۳) تقسیم (۴) بجزہ۔ بھاجی۔
 (۵) کرہ۔ (۶) درجہ (۷) بڑا کتاب (۸) علاقہ۔ عینہ۔ جمع: حصص۔
حصہ بجزہ - (ح۔ا۔ذ) (۱) تقسیم۔ بانٹ (۲) کسی کی چیز کا حصہ۔ میل طاب۔
حصہ ٹھہر جانا - (ح۔ص۔ض) (ح۔ا۔ذ) تقسیم کا معاہدہ ہو جانا۔ طے ہو جانا کہ اتنا
 اتنا حصہ
حصہ دار - (ح۔ا۔ذ) شریک۔ ساتھی۔
حصہ داری - (ح۔ا۔ذ) (ح۔ص۔ض) (ح۔ا۔ذ) شریک۔ شریک۔ زمین کی پتی۔
حصہ رسد - حصہ رسد (ح۔ا۔ذ) (ح۔ص۔ض) (ح۔ا۔ذ) شریک۔ شریک۔ زمین کی پتی۔
 کے موافق۔ بانٹ کے مطابق۔
حصہ لگانا - (ح۔ا۔ذ) (ح۔ص۔ض) (ح۔ا۔ذ) شریک۔ شریک۔ زمین کی پتی۔
حصہ لینا - (ح۔ا۔ذ) (ح۔ص۔ض) (ح۔ا۔ذ) شریک۔ شریک۔ زمین کی پتی۔
حصے کرنا - (ح۔ا۔ذ) (ح۔ص۔ض) (ح۔ا۔ذ) شریک۔ شریک۔ زمین کی پتی۔
حصے میں آنا - (ح۔ا۔ذ) (ح۔ص۔ض) (ح۔ا۔ذ) شریک۔ شریک۔ زمین کی پتی۔
حصیر - (ح۔ص۔ض) (ح۔ا۔ذ) پتھر یا پٹائی۔ جمع: حصائر۔
حصین - (ح۔ص۔ض) (ح۔ا۔ذ) مضبوط۔ محفوظ۔

ح۔ض

حصار - (ح۔ض۔ا۔ذ) (ح۔ا۔ذ) حاضریں۔ موجود لوگ۔
حصارت - (ح۔ض۔ا۔ذ) (ح۔ا۔ذ) شہر میں رہنا۔ شہری زندگی۔
حصارت - (ح۔ض۔ا۔ذ) (ح۔ا۔ذ) شہر کی پرورش کی ذمہ داری۔
حصہ - (ح۔ض۔ا۔ذ) (ح۔ا۔ذ) شہر کی پرورش کی ذمہ داری۔
حصرات - (ح۔ض۔ا۔ذ) (ح۔ا۔ذ) شہر کی پرورش کی ذمہ داری۔
حصرت - (ح۔ض۔ا۔ذ) (ح۔ا۔ذ) شہر کی پرورش کی ذمہ داری۔
 حضور۔ قبلہ۔ تعظیم و عزت کا لقب (۳) چالاک۔ بد معاش۔ بد ذات۔ چلن
 ہوا۔ بے ڈھب۔ ذات شریف۔
حضرت پسند - (ح۔ض۔ا۔ذ) (ح۔ا۔ذ) شہر کی پرورش کی ذمہ داری۔
حضرت سلامت - (ح۔ض۔ا۔ذ) (ح۔ا۔ذ) شہر کی پرورش کی ذمہ داری۔
 تخیلاً اور طرزاً برابر دلوں کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔
حضرت خاطر کی جھاڑو پھرسے - (بددعا) تباہ ہو جائے۔ کوئی باقی نہ رہے

ح۔ص

حصار - (ح۔ص۔ا۔ذ) (ح۔ا۔ذ) احاطہ۔ گھیرا۔ چار دیواری۔ شہر پناہ (۲) قلعہ (۳)
 وہ دائرہ جو عامل اپنے گرد حفاظت کے لیے کھینچ لیتے ہیں۔
حصار باندھنا - قلعہ باندھنا۔ حصاروں طرف سے گھیرا ڈالنا۔ کوئی دُعا یا
 اسون پڑھ کر چاروں طرف خطِ صیغہ کر بلاؤں کی روک کر دینا۔
حصاری - (ح۔ص۔ا۔ذ) (ح۔ا۔ذ) قلعہ بند۔
حصانت - (ح۔ص۔ا۔ذ) (ح۔ا۔ذ) پائیداری۔ مضبوطی (۲) پاک دامن۔

حُفّ - (ح.ح. ۱۰) مذ. کھاس کا خشک ہو جانا (۲) کسی چیز کا بے کار ہو جانا۔
 (۳) گھیرا ڈالنا (۴) خدمت اور مہربانی کرنا (۵) ڈاڑھی مٹانے کے
 بال کو کرنا۔
حُفّ نظر - (ح.ح. ۱۰) مذ. چشم بددور۔ ایک تعریفی کلمہ۔
حُفّاظ - (ح.ح. ۱۰) مذ. حافظ کی جمع۔ وہ لوگ جنہیں قرآن شریف
 زبانی یاد ہو۔
حُفّاظت - (ح.ح. ۱۰) مذ. حفاظت (۱) نگرانی۔ پاسانی (۲) بچاؤ۔ سوتلی
 حفاظت خود اختیاری۔ (ح.ح. ۱۰) مٹ (۱۱) اپنے آپ کو بچانا (۲) اپنی
 جان بچانے کے لیے دوسرے کو مار دینا یا زخمی کر دینا۔
حُفّظ - (ح.ح. ۱۰) مذ. (۱) ازبر زبانی یاد (۲) پاس۔ ادب۔ لحاظ (۳) حفاظت۔
حُفّظ امن - (ح.ح. ۱۰) مذ. امن قائم رکھنا۔
حُفّظ پڑھنا - (ح.ح. ۱۰) مذ. (۱) یاد رکھنا۔ ازبر پڑھنا۔ یاد کرنا۔
حُفّظ جان - (ح.ح. ۱۰) مذ. جان کی حفاظت۔ بچاؤ۔
حُفّظ صحت - (ح.ح. ۱۰) مذ. تندرستی کی حفاظت صحت
 کا بچاؤ اور قیام صحت کو برقرار رکھنے اور بیماری سے بچنے کے قاعدہ

پکھ نہ رہے۔
حُضری - (ح.ح. ۱۰) مذ. (۱) حضر موت کا باشندہ۔
حُضری - (ح.ح. ۱۰) مذ. شہری لوگ۔ ہندی کی ہند۔ عرب کے وہ لوگ جو ایک جگہ
 مستقل آباد ہوں۔
حُضُور - (ح.ح. ۱۰) مذ. موجودگی۔ حاضری۔ حاضر باشی (۲) جناب۔ حضرت۔
 قبلہ (تختیا) (۳) دربار مجلس۔ اجلاس (۴) روبرو۔ سامنے۔
حُضُور کا نوکر ہوں بیگن کا نوکر نہیں۔ (۱) پیش میں تو حضور کی ہاں میں ہاں
 ملا جاتا ہوں۔
حُضُور والا - (ح.ح. ۱۰) مذ. جناب عالی۔ حضور اقدس۔
حُضُوری - (ح.ح. ۱۰) مذ. (۱) حاضری۔ قربت۔ نزدیکی۔ بادشاہی دربار۔ اجلاس۔
حُضیف - (ح.ح. ۱۰) مذ. پستی۔ گڑھا نشیب۔

ح - ط

حُطاب - (ح.ح. ۱۰) مذ. کھڑا۔ کھڑیاں بیچنے والا۔
حُطّام - (ح.ح. ۱۰) مذ. شیر بیز۔
حُطّام - (ح.ح. ۱۰) مذ. کوئی ٹوٹی پھوٹی چیز (۲) کوڑا کرکٹ۔
حُطّاب - (ح.ح. ۱۰) مذ. لاغر۔ بہت ڈبلا۔
حُطّیب - (ح.ح. ۱۰) مذ. (۱) ایمن من (۲) بہمت۔ الزام۔
حُطّی - (ح.ح. ۱۰) مذ. تیز آگ (۲) دوزخ کا تیسرا طبقہ۔
حُطّیم - (ح.ح. ۱۰) مذ. کعبہ کا وہ پتھر جو زمین اور زمزم کے درمیان ہے۔
 (۲) پچھلے سال کا پودا (۳) مٹ (۴) خانہ کعبہ سے باہر مغرب کی جانب
 ایک دیوار۔

حُطّاب - (ح.ح. ۱۰) مذ. کھڑا۔ کھڑیاں بیچنے والا۔
حُطّام - (ح.ح. ۱۰) مذ. شیر بیز۔
حُطّام - (ح.ح. ۱۰) مذ. کوئی ٹوٹی پھوٹی چیز (۲) کوڑا کرکٹ۔
حُطّاب - (ح.ح. ۱۰) مذ. لاغر۔ بہت ڈبلا۔
حُطّیب - (ح.ح. ۱۰) مذ. (۱) ایمن من (۲) بہمت۔ الزام۔
حُطّی - (ح.ح. ۱۰) مذ. تیز آگ (۲) دوزخ کا تیسرا طبقہ۔
حُطّیم - (ح.ح. ۱۰) مذ. کعبہ کا وہ پتھر جو زمین اور زمزم کے درمیان ہے۔
 (۲) پچھلے سال کا پودا (۳) مٹ (۴) خانہ کعبہ سے باہر مغرب کی جانب
 ایک دیوار۔

ح - ق

حَقّ - (ح.ح. ۱۰) مذ. (۱) سچ۔ حقیق (۲) لائق۔ واجب (۳) درست۔ بجا۔ ٹھیک (۴)
 ثابت۔ قائم (۵) فرض۔ ذمہ داری (۶) جائز۔ مباح (۷) انصاف (۸) صلہ
 بدلہ۔ معاوضہ (۹) مزدوری (۱۰) انعام۔ نیک (۱۱) عدل۔ انصاف (۱۲)
 اصلیت۔ واقعہ (۱۳) منصف۔ اختیار (۱۴) حکمت (صفت) درست۔
حَقّ آسائش - (ح.ح. ۱۰) مذ. آرام و آسائش کا وہ حق جس کی رو سے کسی
 کا کوئی ہمسایہ اپنے ملک یا زمین پر کوئی ایسا فعل نہیں کر سکتا جس سے
 اُسے تکلیف یا نقصان پہنچے۔
حَقّ آسائش - (ح.ح. ۱۰) مذ. صفت۔ غلبہ پرست۔ سپہی اور حق بات کہنے والا۔
حَقّ ادا کرنا - (ح.ح. ۱۰) مذ. (۱) فرض ادا کرنا (۲) کوئی کام یا خدمت بجالانا (۳)
 کسی کام کو دیکھ کر ایسا کرنا جیسا کہ کرنا چاہیے تھا۔ بہتر ترین طور سے
 انجام دینا۔
حَقّ ارجح نالیش۔ (ح.ح. ۱۰) مذ. نالیش یا استغناء نہ داؤد کرنے کا حق۔
حَقّ اللہ پاک ذات اللہ۔ خدا برحق ہے اور اس کی ذات پاک ہے۔
حَقّ التحقیق - (ح.ح. ۱۰) مذ. مال گذاری وصول کرنے کا حق جو فہر دار کو ملتا ہے۔

حَقّ - (ح.ح. ۱۰) مذ. (۱) سچ۔ حقیق (۲) لائق۔ واجب (۳) درست۔ بجا۔ ٹھیک (۴)
 ثابت۔ قائم (۵) فرض۔ ذمہ داری (۶) جائز۔ مباح (۷) انصاف (۸) صلہ
 بدلہ۔ معاوضہ (۹) مزدوری (۱۰) انعام۔ نیک (۱۱) عدل۔ انصاف (۱۲)
 اصلیت۔ واقعہ (۱۳) منصف۔ اختیار (۱۴) حکمت (صفت) درست۔
حَقّ آسائش - (ح.ح. ۱۰) مذ. آرام و آسائش کا وہ حق جس کی رو سے کسی
 کا کوئی ہمسایہ اپنے ملک یا زمین پر کوئی ایسا فعل نہیں کر سکتا جس سے
 اُسے تکلیف یا نقصان پہنچے۔
حَقّ آسائش - (ح.ح. ۱۰) مذ. صفت۔ غلبہ پرست۔ سپہی اور حق بات کہنے والا۔
حَقّ ادا کرنا - (ح.ح. ۱۰) مذ. (۱) فرض ادا کرنا (۲) کوئی کام یا خدمت بجالانا (۳)
 کسی کام کو دیکھ کر ایسا کرنا جیسا کہ کرنا چاہیے تھا۔ بہتر ترین طور سے
 انجام دینا۔
حَقّ ارجح نالیش۔ (ح.ح. ۱۰) مذ. نالیش یا استغناء نہ داؤد کرنے کا حق۔
حَقّ اللہ پاک ذات اللہ۔ خدا برحق ہے اور اس کی ذات پاک ہے۔
حَقّ التحقیق - (ح.ح. ۱۰) مذ. مال گذاری وصول کرنے کا حق جو فہر دار کو ملتا ہے۔

ح - ف

حقّ الشّعی - حقّ الخُصّت - (ع - ا - مذ) محنت کا حق - مزدوری -

حقّ العباد - (ع - ا - مذ) بندوں کا حق - انسان کا انسان پر حق -

حقّ الیقین - (ع - ا - مذ) تصرف کی اصطلاح - اللہ تعالیٰ کو دل کی آنکھ سے دیکھنا - اللہ پر پورا یقین -

حقّ بالذات - (ع - ا - مذ) ظہقی یا پیدا نش حق -

حقّ بجانب - (ع - ف - ص) سزاوار لائق حق پر -

حقّ بمقدار رسید - (م) جس کا حق تھا اُسے مل گیا -

حقّ بین - (ع - ف - ص) جیسا کہ حق پر نظر رکھنے والا - دوسرے کے حقوق کو پہچاننے والا -

حقّ پرست - (ع - ف - ص) حق کی بات کرنے والا - سچا آدمی -

حقّ پروردہ - (ع - ف - ص) حق تلاش کرنے والا - سچ کا طالب -

حقّ پہنچنا - (ع - ا - محاورہ) کسی کا حق دار ہونا - اپنا حصہ مل جانا -

حقّ تصنیف (تالیف) - (ع - ا - مذ) کتاب لکھنے کا معاوضہ - وہ رقم جس کے عوض مصنف کسی کو اپنی کتاب چھپانے کا حق دے دے -

حقّ تعالیٰ - (ع - ا - مذ) خدا کے بزرگ و برتر -

حقّ ظہقی - (ع - ف - ص) کسی کا حق مار لینا - بے انصافی -

حقّ چھڑانا - (م - ص) مرگب، حق مقرر کرنا - حق کا فیصلہ کرنا - کسی بات کو سچا مان لینا -

حقّ ثابت کرنا - (ع - ا - محاورہ) دعویٰ کا ثابت کرنا - اپنے حق کو منوا لینا -

حقّ حق کرنا - (ع - ا - محاورہ) خدا کا نام لینا (۲) انصاف کرنا -

حقّ حلال - (ع - ا - مذ) جائز - مباح (۲) صحیح - درست -

حقّدار - (ع - ف - ص) حق - مستحق حق رکھنے والا -

حقّ دہانا - (ع - ا - محاورہ) حق نہ دینا - کسی کا حق مار لینا -

حقّ دہاؤ - دوسرے کا حق مارنے والا - (ق)

حقّ رسی - (ع - ف - ص) حق کو پہنچنا - انصاف - عدل - نیناؤ -

حقّ شفعہ - (ع - ا - مذ) اپنے مکان سے چلے ہوئے مکان یا زمین سے ملتی ہوئی زمین خریدنے کا قانونی طور پر نالغ حق -

حقّ شناسی - (ع - ا - مذ) حق پہچاننا (۲) خدا شناسی - حق قدرت سے واقف ہونا - تدریسی - جوہر شناسی - انصاف پہچانی کی پہچان -

حقّ فراموش - (ع - ف - ص) دوسرے کا حق بھول جانے والا -

حقّ فروستی - (ع - ا - محاورہ) سچائی کا سودا کرنا - بے ایمانی - رشوت لے کر بے انصافی کرنا - بددیانتی -

حقّ گڑوا ہونا ہے - (م) سچا بات بڑی گنتی ہے -

حقّ گو - (ف - ا - ص) سچ کہنے والا -

حقّ گوئی - (ع - ف - ص) سچ کہنا - انصاف کی بات کہنا -

حقّ میں کاٹنے بولنا - (ع - ا - محاورہ) کسی کے ساتھ بُرائی کرنا - ایسے کام کرنا جس سے کسی کو نقصان ہو -

حقّ نالغ - بے سبب - خواہ مخواہ - بربستی -

حقّ ناشناس - (ع - ف - ص) ناشکر گزار -

حقّ نیک ادا کرنا - (ع - ا - محاورہ) نیک آقا سے وفاداری کرنا - مالک کی

خدمت بجالانا -

حقّ نبوش - (ع - ف - ص) سچی بات سُنے والا حق جاننے والا - حق پسند - حق - (ع - ف - ص) سچ ہے - قسم ہے خدا کی -

حقّاکہ با محسوبیت دوزخ برابر است - (ع - ف - م) حق کا قسم ہمارے

رفیق بنائے مردیٰ جہاں دوزخ بہشت کی آمد سے بہشت میں جانا

دوزخ میں چلے جانے کے برابر ہے کسی کا احسان نہ لینا چاہیے -

حقّارت - (ع - ف - ص) رت - (ع - ا - محاورہ) ذلت - ہنگامی - بے عزتی - خفت - لغزت

حقّارت کی نظر سے دیکھنا - (ع - ا - محاورہ) ذلیل سمجھنا - کم درجے کا سمجھ کر تو جہ نہ دینا -

حقّانی - (ع - ف - ص) حق - (ع - ا - محاورہ) حق سے نسبت رکھنے والا -

حقّانیت - (ع - ف - ص) حق - (ع - ا - محاورہ) حق کی طرف منسوب ہونا - سچائی - راستی - صداقت -

حقّائق - (ع - ف - ص) حقائق - (ع - ا - محاورہ) حقیقت کی جمع - حقیقتیں - اصل حالات - سچی باتیں - اصل کیفیت -

حقّضہ - (ع - ف - ص) حق - (ع - ا - محاورہ) کسی دوا کی یا پیکاری یا سچانے کے مقام میں بڑھانا تاکہ پاخانہ آجائے -

حقّضہ کرنا - پاخانہ آنے کے لیے سُرے میں دوا کی پیکاری یا سچا پڑھانا -

حقّوق - (ع - ف - ص) حق - (ع - ا - محاورہ) حق کی جمع - فرائض - ذمہ داریاں -

حقّہ - (ع - ف - ص) حق - (ع - ا - محاورہ) جو اہل رت رکھنے کی ڈبیا (۲) تبا کو پینے کا آکر - گڑ گڑا -

حقّہ باز - (ع - ف - ص) (ع - ا - محاورہ) گرجان منی - مداری (۲) بہت حقّہ پینے والا -

حقّہ باشد کہ دم بدم باشد - (ع - ف - م) حقّہ پینے کا طریقہ یہ ہے کہ نہ کہ میراث بعد ازاں باشد - کس لگایا اور آگے بڑھا دیا نہ کہ باب

داد کی میراث سمجھ کر اکیلے ہی پیتا رہے - خود عرض کے متعلق کہنا جاتا ہے -

حقّہ بچانا - (ع - ا - محاورہ) کثرت سے حقّہ پینا -

حقّہ بلانا - (ع - ا - محاورہ) حقّہ میں سے آواز نکالنا -

حقّہ بھرننا - (ع - ا - محاورہ) پلم میں تبا کو جما کر رکھنا - پینے کے لیے حقّہ تیار کرنا -

حقّہ پانی بند کرنا - (ع - ا - محاورہ) ذات برادری سے خارج کرنا - تکلیف پہنچانا -

حقّہ پانی پلانا - (ع - ا - محاورہ) آؤ بھگت کرنا - خاطر تواضع کرنا -

حقّہ تازہ کرنا - (ع - ا - محاورہ) حقّہ کا پانی بدلنا اور نیچے کو اور نئے کو تر کرنا -

حقّہ کا پانی اور سو جوتے - (ع - ا - محاورہ) ایک قسم کی سزا کوئی بات منوانے کے لیے کہتا ہے کہ اگر ایسا نہ ہوا تو یہ سزا -

حقّہ کی ماری آگ - باقی کا مارا گاؤں - (ع - ا - محاورہ) جس آگ میں سے بار بار حقّہ بھرا جائے وہ بجھ جاتی ہے - جس گاؤں کی مال گذاری بقایا رہے اور دقت پر ادا نہ ہو وہ تباہ ہو جاتا ہے -

حقّیت - (ع - ف - ص) حق - (ع - ا - محاورہ) حق - حق داری - ملکیت -

حقّیت اظہاری - (ع - ف - ص) حق - (ع - ا - محاورہ) حق یا دعویٰ کا ثبوت -

حقّیت علمی - (ع - ف - ص) حق - (ع - ا - محاورہ) بڑا جو پڑھار سے لیا جائے -

حقّیر - (ع - ف - ص) حق - (ع - ا - محاورہ) ادنیٰ (۲) ذلیل خوار - اچھا - بے قدر (۳)

حقیقت - (ح-ق-ق) - (ق-ت) [ح-ا-م] اصل - جز۔ بنیاد (۱۷) اصیلت
 ماہیت (۳) حالت - کیفیت - حال (۴) سہائی - سچ - صداقت (۵)
 ماجرا - سرگذشت (۶) مجاز کی بند - جمع - حقائق -
 حقیقت کھل جانا - (۱) معاودہ (۲) عید ظاہر ہو جانا - اصل حال معلوم ہو جانا
 مزہ آ جانا -
 حقیقت کیا ہے ؟ (۱) معاودہ (۲) کوئی حیثیت نہیں - ناچیز ہے - کوئی
 اہمیت نہیں -
 حقیقت معلوم کرنا - (۱) معاودہ (۲) اصل حال یا عید معلوم کرنا -
 حقیقت میں - اصل میں - واقعی - دراصل -
 حقیقت نفس الامری - (۱) ف - (۲) م - (۳) م - (۴) حقیقت جس کو سب
 تسلیم کرتے ہوں -
 حقیقت نہ ہونا - (۱) معاودہ (۲) اصیلت نہ ہونا - بے وقت ہونا -
 حقیقتاً - (۱) ح-ق-ق (۲) ق-ق-ق (۳) ق-ق-ق (۴) ق-ق-ق (۵) ق-ق-ق (۶) ق-ق-ق
 حقیقی - (۱) ح-ق-ق (۲) ق-ق-ق (۳) ف - (۴) ص - (۵) اصل - جو بناوٹی نہ ہو - بلا آئینہ (۶)
 کھرا - صاف - بے تلاوٹ (۳) سگا - اپنا جیسے سگا بھائی -

حکم بجا لانا - (۱) معاودہ (۲) کہنا ماننا حکم کی تعمیل کرنا -
 حکم بزدار - (۱) ح-ع-ف - (۲) صفت (۳) بات ماننے والا - فرمانبردار - نیک حلال -
 حکم بھینسا - (۱) معاودہ (۲) سرکاری طور پر اطلاع دینا - ہدایت بھینسا -
 حکم پر چلنا - (۱) معاودہ (۲) حکم کی تعمیل کرنا - ہدایت کے مطابق کام کرنا -
 حکم توڑنا - (۱) معاودہ (۲) حکم نہ ماننا - نافرمانی کرنا -
 حکم جاری کرنا - (۱) معاودہ (۲) حکم صادر کرنا - اہتمام دینا - ڈونڈی پٹوانا -
 حکم چلانا - (۱) معاودہ (۲) حکومت کرنا - بیٹھے بیٹھے دوسروں سے کام لینا اور
 خود کام نہ کرنا - سخی کرنا -
 حکم حاکم مرگِ مفاجات - (۱) ف - (۲) مقولہ (۳) حاکم اچانک جو حکم چاہے دے
 دیتا ہے اور وہ موت کی طرح اٹل ہوتا ہے -
 حکم دینا - (۱) معاودہ (۲) ارشاد فرمانا - ہدایت دینا (۳) فتویٰ دینا (۴) فیصلہ کرنا
 (۵) اہتمام دینا (۶) اجازت دینا -
 حکم رال - (۱) ح-ع-ف - (۲) صفت (۳) حکم چلانے والا - بادشاہ - فرمانروا -
 حکم زانی - (۱) ح-ع-ف - (۲) امٹ (۳) فرمانروائی - حکومت - بادشاہی - سلطنت -
 حکم شرعی - (۱) ح-ع-ا - (۲) مذ - (۳) حکم جو شرع اسلامی کے مطابق دیا جائے -
 حکم ظہری - (۱) ح-ع-ا - (۲) مذ - (۳) وہ حکم جو کسی ریپورٹ یا درخواست کی پشت پر
 لکھا جائے -

ح-ک

حکمت - (۱) ح-ع-ا - (۲) مذ (۳) مٹانا کھرچنا - چھیلنا - ڈگرنا - رگڑنا - تراش -
 حکاک - (۱) ح-ک - (۲) لاک (۳) ح-ع-ا - (۴) مذ (۵) مہر کن - حرف کھودنے والا - ٹیگن ساز -
 موتی میں چید کرنے والا -
 حکام - (۱) ح-ک - (۲) لاک (۳) ح-ع-ا - (۴) مذ (۵) حکم کی جمع - حکومت کرنے والے افسران -
 حکایت - (۱) ح-ک - (۲) لاک (۳) ح-ع-ا - (۴) مذ (۵) کہانی - داستان - قصہ - بات - بیان
 حکایتیں کرنا - (۱) معاودہ (۲) صفت کی جہتیں کرنا - دلیل چھانڈنا -
 حکایتی - (۱) ح-ک - (۲) لاک (۳) ح-ع-ا - (۴) مذ (۵) ذکر کے طور پر - برسیل تذکرہ -
 حکایتی - (۱) ح-ک - (۲) لاک (۳) ح-ع-ا - (۴) مذ (۵) بات بات پر بحث کرنے والا - جوتی -
 حکم - (۱) ح-ک - (۲) لاک (۳) ح-ع-ا - (۴) مذ (۵) ثالث - مرتج - فیصلہ کرنے والا - منصف -
 حکم - (۱) ح-ک - (۲) لاک (۳) ح-ع-ا - (۴) مذ (۵) حکمت کی جمع - حکوم - دانائی -
 حکم - (۱) ح-ع-ا - (۲) مذ (۳) فرمان - پروانہ - ارشاد - ہدایت (۴) شرعی فیصلہ - فتویٰ
 (۵) اجازت - پرمانگی (۶) تاش کے پتوں میں گالے رنگ کے پان کے
 نشان (۷) سخی - جبر - جمع - احکام -
 حکم بظہر - (۱) ح-ع-ا - (۲) مذ (۳) آخری فیصلہ - قطعی فیصلہ -
 حکم اٹھانا - (۱) معاودہ (۲) حکم ماننا - فرمان بجالانا (۳) گھنٹے کے کیل میں سرکا
 پتا لینے کے واسطے حکم کا پتا ڈالنا -
 حکم اٹھانی - (۱) ح-ع-ا - (۲) مذ (۳) کسی کام سے باز رکھنے کا حکم جو عدالت جاری
 کرتی ہے -
 حکم انداز - (۱) ح-ع-ف - (۲) صفت (۳) وہ تیرا نما جس کا نشانہ کہیں نہ پڑے - کہہ کر
 صحت نشان لگانے والا تیرا نما -

حکم قطعی - (۱) ح-ع-ا - (۲) مذ (۳) آخری فیصلہ - حکم ناطق -
 حکم اگشتی - (۱) ح-ع-ا - (۲) مذ (۳) سرکاری مراسلہ - وہ حکم جو مختلف دفاتروں کو
 بھیجا جائے ہر کمرہ -
 حکم لگانا - پختہ رائے کا ہر کرنا - دوڑے جانا (۲) قانونی دفعہ لگانا -
 حکم مطلق - (۱) ح-ع-ف - (۲) مذ (۳) حکم قطعی (۴) عام حکم -
 حکم ناطق - (۱) ح-ع-ا - (۲) مذ (۳) قطعی حکم - آخری فیصلہ - اٹل فیصلہ -
 حکم نامہ - (۱) ح-ع-ف - (۲) مذ (۳) وہ حکم جو کسی با اختیار حکم کی طرف سے لکھا جائے
 تحریری حکم - فرمان -
 حکمنا - (۱) ح-ک - (۲) لاک (۳) ح-ع-ا - (۴) مذ (۵) حکم کی جمع - دانالوگ - فلسفی -
 حکمنا - (۱) ح-ع-ف - (۲) مذ (۳) حکم کے مطابق - حکم سے -
 حکمت - (۱) ح-ک - (۲) لاک (۳) ح-ع-ا - (۴) مذ (۵) دانائی - عقل - (۶) ہر چیز کی حقیقت -
 دریافت کرنے کا علم (۷) تدبیر - ترکیب (۸) علاج معالجہ (۹) مطلب -
 حکمت آمیز - حکمت سے بھرا ہوا - حائقنا -
 حکمت الہی - اللہ کی مرضی -
 حکمت بر لہمان اکو صحن - (۱) ف - (۲) مثل (۳) داناکو دانائی سکھانا - فضول
 بات کرنا -
 حکمت چلنا - (۱) معاودہ (۲) چالاک کی کامیاب ہونا -
 حکمت چین و جنت بنگال - (۱) ف - (۲) مثل (۳) عملی اور دانائی ہیں سے
 اور بھگواناد بنگال سے منسوب ہے -
 حکمت عملی - (۱) ح-ع-ا - (۲) مٹ (۳) تدبیر - ہوشیاری - دوراندیشی - پالیسی - عملی
 مصلحت - چل بل -
 حکمت مدنی - (۱) ح-ع-ا - (۲) مٹ (۳) شہری انتظام کے قوانین - انتظام شہری -
 حکمت کرنا - (۱) معاودہ (۲) طبابت کرنا (۳) تدبیر کرنا - دانائی کرنا -

حلقہ - (صل - ق) - (ع۔ ا۔ مذ) دائرہ گھرا - احاطہ (۲) مجلس - جماعت (۳) لہجے یا لہجہ وغیرہ کا کل گٹھا (۴) نیکہ - گھنٹی کا گھر (۵) علاقہ - ضلع - حلقہ انتخاب - (ع۔ ا۔ مذ) وہ علاقہ جسے پارلیمنٹ - اسمبلی یا کسی دوسرے انتخابی ادارے کے انتخاب کے موقع پر ایک وعدت قرار دیا جاتا ہے -

حلقہ بانڈھنا - (ا۔ محاورہ) گھیرا ڈالنا - دائرے میں کھڑا ہونا - چاروں طرف سے گھیر لینا -

حلقہ بکوس - (ع۔ ف - صفت) غلام - فرما نبردار - مطیع - پرانے زمانے میں غلاموں کے کانوں میں کڑا ڈال دیتے تھے -

حلقہ بکوسی - (ع۔ ف - صفت) فلامی - اطاعت -

حلقہ بندی - (امت) چند علاقوں کو کسی مقصد کے تحت یکجا کر دینا -

حلقہ رود - (ع۔ ف - ا۔ مذ) دروازے کا گٹھا -

حلقہ ڈالنا - (ا۔ محاورہ) چاروں طرف سے روک لینا - صہار بانڈھنا - گھیرا ڈالنا -

حلقہ - (ع۔ صفت) حلق سے منسوب - وہ چھ حروف جن کا خروج حلق سے ہے - ع۔ ح۔ خ۔ ج۔ ہمزہ - ہ -

حلقے کا ماتم - (ع۔ ا۔ مذ) وہ ماتم جو حلقہ باندھ کر کیا جائے -

حلقہ ڈالنا - (عل - کم - ڈال - نا) (ا۔ محاورہ) جلدی کرنا - پھل ڈالنا -

حکل - (ع۔ ل) (ع۔ ا۔ مذ) گتہ کی جمع - بہشتی لباس -

حکلم - (ع۔ ا۔ مذ) (ا۔ محاورہ) بردباری - برداشت (۲) نرمی - نرم دل -

حکوا - (صل - نا) (ع۔ ا۔ مذ) میٹھا - نرم شیرینی - جو سوئی کوٹھی میں جھونتے اور پھر جاتی ہیں پکانے سے بننا ہے (۳) نرم چیز (۴) آسان کام -

حکوا خورون - (ع۔ ا۔ مذ) (امت) حکوا خوریک - اختوجتو - کاشتہ کی بیابان -

حکوا خوردن رارونے باید - (صفت) عزلت کے لیے لیاقت ضروری ہے - اچھی چیز کے لیے اس کا اہل ہونا بھی ضروری ہے -

حکوا سمھنا - (ا۔ محاورہ) کسی شخص کو کزور سمھنا (۲) کسی کام کو آسان سمھنا -

حکوا سوچن - (ا۔ مذ) اصل میں حکوا سولان ہے - ایک قسم کا سخت حکوا جو ٹیگنوں کی شکل میں ہوتا ہے - پہلے سختی کی وجہ سے یہ نام رکھا گیا تھا -

حکوا کھائے - ایک سخت قسم ہمیں مرڈہ دیکھے -

حکوا تیکل جاننا - (ا۔ محاورہ) حال پتلا ہونا - سختیوں سے بد حال ہونا -

حکوائے بے دود - (ع۔ ف - مذ) پیر کا پکا میوہ شیریں - نرم چارہ

حکوان - (صل - دان) (ا۔ ا۔ مذ) طام گوشت - برے یا پھیلے کا گوشت - پھیر یا بکی

لاؤدھ پیتا پنچ (۲) رشوت (۳) چیز (۴) ایک قسم کا کپڑا -

حکوائی - (صل - دا - ای) (ع۔ ا۔ مذ) صفائی بنانے اور دیکھنے والا -

حکوائی کی دوکان اور داداجی کا فاتحہ - (صل - دیش) برائے مال کو اپنا سبب کر مبرین فرخ کرنا - دوسرے کی دولت پر مزے اڑانا -

حکول - (ع۔ ل) (ع۔ ا۔ مذ) ایک چیز کا دوسری چیز میں اس طرح داخل ہونا کہ دونوں میں تیز نہ ہو سکے (۲) تسخ - آداگون -

حکله - (صل - لہ) (ع۔ ا۔ مذ) بہشتی لباس - جامہ - چادر - جبکہ چنڈ -

حکلیف - (ع۔ بریف) (ع۔ ا۔ مذ) (ا۔ مذ) دکار - رفیق - ساتھی (۲) دفرق جہنوں نے ایک دوسرے کی امداد کا معاہدہ کیا جو - جمع - حلقہ -

حکلم - (ع۔ لیم) (ع۔ صفت) (ا۔ مذ) (ا۔ محاورہ) بڑ بار - تسخ مزان - نرم - طام (۲) ایک قسم کا کھانا جو تاج گوشت اور سالے ڈال کر پکا یا جاتا ہے کچھ تو پانچا حلیہ - (صل - یز) (ع۔ ا۔ مذ) (ا۔ محاورہ) شکل و صورت خط وصال جو شادخت کے لیے لکھے جاتے ہیں (۲) زبرد - گنا -

حکلیہ بگاڑ دینا - (ا۔ محاورہ) منہ پر ایسا مارنا کہ صورت بگڑ جائے - چہرہ بگاڑنا بری حالت کر دینا -

حکلیہ بگڑنا - (ا۔ محاورہ) گت بنا - بری حالت ہونا -

حکلیہ بنانا - (ا۔ محاورہ) شکل اختیار کرنا - صورت بنانا -

حکلیہ تخریر کرنا - کسی کی شکل و صورت اور خط وصال پہچان کے لیے تخریر کرنا -

ح۔ م

حما - (ع۔ ا۔ مبالغہ) بہت زیادہ تعریف کرنے والا -

حما - (ع۔ مارج) (ع۔ ا۔ مذ) گدھا - خر (۳) اعق -

حماسیر - (ع۔ مذ) زمین نظم -

حمایقت - (ع۔ ما - ق) (ع۔ ا۔ مذ) بے دقتی - نادانی - اعق پن - بے عقلی -

حمال - (م - مال) (ع۔ ا۔ مذ) بوجھ اٹھانے والا - پتے دار - قلی - مزدور -

حمالہ - (ع۔ امت) (ع۔ ا۔ مذ) حمال کی واحد (۲) بڑے بڑے بوجھ اٹھانے والی مشین - کرین -

حمام - (ع۔ ا۔ مذ) ہر وہ پرندہ جس کے گلے میں کنٹھی ہو ناخنہ وغیرہ - خاص طور پر کوتر -

حمام - (م - حمام) (ع۔ ا۔ مذ) گناہ - ہانے کی جگہ -

حمام کی کنٹھی - (امت) (صفت) جو حمام اور ہر شخص کے استعمال میں آئے - (۲) دہڑی - کبھی - بازاری عورت بیوا -

حمام میں سب ننگے - (ا۔ مثل) ایک ہی بڑائی میں سب بتلا -

حمامی - (م - مائی) (ع۔ ا۔ مذ) ہلانے والا - مثل کرانے والا - حمام -

حمائل - (ع۔ مال) (ع۔ ا۔ مذ) (صفت) گلے میں ڈالنے کی چیز - پرتلا طوار کا (۲) چھوٹی قطعیت کا قرآن شریف سے گلے میں لٹکا سکیں (۳) ایک نرور -

حمایت - (ع۔ ما - یت) (ع۔ ا۔ مذ) (صفت) (۲) امداد - گھبانے - سایہ - محافظت -

جٹائی کاغذ - (ف۔ ا۔ مذ) ایک قسم کا کاغذ جس کا رنگ جٹا کے پھیکے اور بکے رنگ سے ملتا ہے۔
 حنبل - (م۔ ب۔ لی) (ح۔ ا۔ مذ) امام حنبل کا پیر۔
 حنّان - (ح۔ ن۔ نان) (ح۔ ا۔ مذ) بے حد رحمت والا بخشنے والا۔ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام۔

خجھرہ - (ح۔ ب۔ زہ) (ح۔ ا۔ مذ) زخروہ۔ علق۔ گھو۔
 خنظل - (ح۔ ن۔ ظن) (ح۔ ا۔ مذ) اندرائں کا پھل جو صفت کڑوا ہوتا ہے۔ (پ۔ نمان)۔
 خنقا - (ح۔ م۔ ب) (ح۔ ا۔ مذ) حضرت ابراہیم کے مذہب کے پیرو لوگ۔
 خنقی - (ح۔ ن۔ قی) (ح۔ صفت) کسی مسلمانوں کی وہ جماعت جو امام ابوحنیفہ کی پیروی ہے۔ عقلی معنی۔ صادق۔ سچا۔ جمع: احناف۔ حنفیہ۔
 خنوط - (ح۔ ن. ط) (ح۔ ا۔ مذ) چند خوشبودار چیزوں کا ایک مرکب جو مرے کو غسل دینے کے بعد اس پر ملتے ہیں۔
 خنیف - (ح۔ ب. ن. ف) (ح۔ ا۔ مذ) حضرت ابراہیم کے دین کا ماننے والا۔ (۲) پکا مسلمان (۳) مذہبی عقیدے کا پختہ۔ دین میں سچا (۴) پکا۔ صادق۔ حضرت ابراہیم کا لقب۔ جمع: احنفاء۔

جھانپتی - (ح۔ با۔ پی۔ تی) (ح۔ ف۔ صفت) طرفداری جانی۔ معاون۔ مددگار۔
 جھانپتی کا ٹھو - (ا۔ محاورہ) دوسرے کے بل پر کودنے والا۔ کسی کی مدد پر کام کرنے والا۔
 جھانپتی کی گھوڑی عراقی کے لات مارتی ہے - (۱) مثل جس کا کوئی مددگار ہو وہ اسے ہونے کے باوجود بڑوں کا سامنا کر بیٹھتا ہے۔

محمد - (ح۔ ا۔ مٹھ) خدا کی تعریف۔
 جھرا - (ح۔ م۔ را) (ح۔ صفت) سرخ رنگ کی۔
 جھنق - (ح۔ م. ق. ن) (ح۔ ا۔ مذ) بے وقوفی۔ نادانی۔
 جھنقا - (ح۔ م۔ ق. تا) (ح۔ صفت) احمق کی جمع۔ بیوقوف۔
 حمل - (ح۔ ا۔ مذ) (۱) بوجھ (۲) پیٹ۔ گرجھ (۳) عورت کے پیٹ میں جو بیٹہ ہو۔
 حمل اسقاط (ساقط) ہونا - (ا۔ محاورہ) پیٹ گرنا۔ قبل از وقت بیٹے کا دم سے نکل جانا۔
 حمل بٹھرتا - حمل رہنا۔ حمل ہو جانا۔ (ا۔ محاورہ) عورت کے دم میں نطفہ پر لڑکر بیٹہ جانا۔

حمل گرانا - پیٹ گرانا - اسقاط کرنا - معضہ کا قبل از وقت پیٹ سے نکال دینا
 حمل - (ح۔ ا۔ مذ) آسمان کا پہلا برج جس کی شکل میٹھے کی ہے۔
 حملہ مرحوم - (ح۔ ا۔ مذ) پڑھائی۔ بیروش۔ ہلہ۔ بھادا (۲) وار۔ حربہ۔ چوٹ۔
 حملہ آورد - (ح۔ ف۔ صفت) پڑھ کر آنے والا۔ حملہ کرنے والا۔
 حموضت - (ح۔ مٹھ) کھٹائی۔ ترشی۔ کڑواہٹ۔
 حمول - (ح۔ مذ) اندام بنانی میں رکھنے کی دوا۔
 حمی - (ح۔ مذ) تپ۔ بخار۔
 حمیت - (ح۔ بی۔ یت) (ح۔ ا۔ مٹھ) عزت۔ شرم۔ ننگ۔
 حمید - (ح۔ بید) (ح۔ صفت) تعریف کیا ہوا (۲) خدا کا ایک صفاتی نام۔
 حمیرا - (ح۔ ن۔ ما) (ح۔ ا۔ مٹھ) سرخ رنگ کی۔
 حمیم - (ح۔ بیم) (ح۔ صفت) گرم پانی (۲) دوست۔ رشتہ دار (۳) موسم گرما کا درمیانی حصہ (۴) گرمیوں کی بارش (۵) وہ گرم پانی جو دوزخیوں کو پلا یا بجائے گا۔

ح۔ و

خوا - (ح۔ و۔ ا) (ح۔ ا۔ مٹھ) باو آدم کی بیوی کا نام۔ سب انسانوں کی ماں۔
 خواجہ - (ح۔ و۔ ا۔ جب) (ح۔ ا۔ مذ) صاحب کی جمع۔ دربان۔
 خواہش - (ح۔ و۔ ا۔ وٹ) (ح۔ ا۔ مذ) عادت کی جمع۔ مصیبتیں۔ تکلیفیں۔ حادثے۔
 خواری - (ح۔ و۔ ا۔ ری) (ح۔ ا۔ مذ) (۱) حضرت عیسیٰ کے اصحاب (۲) حضرت مسیح کے شاگرد جو تعداد میں بارہ تھے۔ (۳) دفا داری سے کام کرنے والے (۴) دوست۔ مددگار (۵) برگزیدہ۔
 خواس - (ح۔ و۔ اس) (ح۔ ا۔ مذ) وہ وقت جس سے ادراک ہوتا ہے (۲) ہوش۔ اوسان۔ عقل۔ سمجھ۔ عاقلہ کی جمع۔
 خواس باختمہ - (ح۔ و۔ ف۔ صفت) بے اوسان۔ گھبرایا ہوا۔ غبوظ الخواس ہکا بکا۔

خواس پر سے صدقہ دینا - (ا۔ محاورہ) ہوش درست کرنا۔ عقل کی خبر لینا۔ عقل کے ناخن لینا۔
 خواس جانا - (ا۔ محاورہ) اوسان نہ رہنا۔ گھبرا جانا۔
 خواس خمسہ - (ح۔ و۔ ا۔ مذ) پانچ خواص دیکھنے۔ سنے۔ سو گھنے۔ چکھنے اور چھونے کی پانچ قوتیں۔
 خواس میں اگر بات کرو - (ا۔ محاورہ) نامعقول بات مت کرو۔
 خواشی - (ح۔ و۔ ا۔ شی) (ح۔ ا۔ مذ) حاشیہ کی جمع۔ کنارے (۲) مصاحب۔ ہم نشین۔ یادداشتیں۔ جو کتاب کے حاشیے پر لکھی جائیں۔
 خواصل - (ح۔ و۔ ا۔ صل) (ح۔ ا۔ مذ) ایک سفید آبی پڑھہ۔ ماہی خور (۲) حوصلہ کی جمع۔ پونے۔ پرندوں کے معدے (۳) ذخیرہ۔ میگزین۔

ح۔ ن

حننا - (ح۔ ن۔ نا) (ح۔ ا۔ مٹھ) ہندی۔
 حنا بند - وہ کاغذ جس میں ہندی کی پڑیاں باندھتے ہیں (۲) ہندی لگا ہوا۔
 حنا بندی - شادی کی ایک رسم جو سچے سے ایک دن پہلے عمل میں آتی ہے اسے ہندی بھی کہتے ہیں (۲) ہندی لگانا۔
 حنا کا چور - (ف۔ ا۔ مذ) وہ جگہ جہاں ہندی کا رنگ نہ پڑے۔ لائقہ کا وہ سفید حصہ جہاں ہندی نہ لگی ہو۔
 حنائی - (ح۔ نا۔ ای) (ف۔ صفت) گیرما۔ نزدیکی مائل۔ سرخ رنگ۔ ہندی کے رنگ کا۔

حوالات - (ح - فا - لات) (ح - ا - مٹ) وہ اشیاء جو قبضے میں دی جائیں -
امانتیں - اذانات (۷) تحویل - قید - حراست - نگرانی (۳) وہ جگہ جہاں ملزم کو
ما فیصلہ مقدمہ نظر بند رکھا جائے۔

حوالاتی - (ح - وا - لاتی) (اُڑا - مذ) حالات میں رہنے والا - ملزم -
حوالہ - (ح - وا - لہ) (ح - ا - مذ) سیرورگی - تحویل (۲) پتہ - نشان - جمع - حوالہ جات
حوالہ دار - حوالہ دار - میڈیکل انسٹیٹیوٹ - پولیس اور فوج کا ایک عہدہ دار سپاہی
جس کے ماتحت کئی سپاہی ہوں۔

حوالے کرنا - (ا - مجاورہ) سیرور کرنا - سنبھالنا -
حوالی - (ح - وا - لی) (ح - ا - مٹ) گرد و نواح - آس پاس -

حوالی شہر - (ح - ف - ا - مذ) شہر کے ارد گرد کا علاقہ -
حوالی موالی - (ح - ف - ا - مذ) دوست - ساتھی - ہمراہی -

حوالچ - (ح - وا - ا - ح) (ح - ا - مذ) مٹ) حاجت کی جمع ضرورت -
حوالچ ضروری (ضروریہ) - (ح - ا - مٹ) ضروری حاجتیں - خاص
طور پر پانچ - پیشاب -

حوٹ - (ح - ا - مذ) مٹ) (۱) بڑی پھلی (۲) نظام شمسی کا بارہواں بُرج - جو
ششتری کا گھر ہے (۳) دھیل -

حوڑ - (ح - ا - مٹ) حوٹ کی جمع - خوبصورت عورتیں جو بہت میں نیک آدمیوں
کی خدمت گار ہوں گی - بہت خوبصورت - شکیلہ - جمیلہ -

حوڑ کا پتہ - (ا - صف) بہت خوبصورت - پری زاد -
حوڑ عین - (ح - ا - مٹ) فرائض چشم عورت اور بڑی بڑی آنکھوں والی
عورت - حوڑ -

حوصلہ - (ح - و - ص - لہ) (ح - ا - مذ) جرأت - دلیری - ہمت - مقدور (۲) سمائی -
بُردباری (۳) ارمان - آرزو (۴) جانور کا پونٹا -

حوصلہ افزا - (ح - ف - ص) ہمت دلانے والا - حوصلہ بڑھانے والا -
حوصلہ افزائی - (ح - ف - ا - مٹ) شائباش دینا - ہمت بڑھانا -

حوصلہ تنگ ہونا - (ا - مجاورہ) پست ہمت ہونا - کیلئے خیالات کا ہونا -
حوصلہ رکھنا - (ا - مجاورہ) کسی کام کی ہمت رکھنا -

حوصلہ مند - (ح - ف - ص) بلند ہمت - ہمت والا - اولوالعزم -
حوصلہ نکالنا - (ا - مجاورہ) ارمان پورے کرنا (۲) خوب خرچ کرنا (۳)
ہمت کرنا -

حوصلے سے باہر - (ا - ص) ہمت سے زیادہ -
حوض - (ح - ا - مذ) چھوٹا تالاب - پانی جمع کرنے کا پکا گڑھا (۲) حاشیے کے
اندر کی جگہ - من -

حوض بھرے تو فوارہ چھوٹے - (اش) آمدنی جو جی تو خرچ ہو سکتا ہے
حوضہ - (ح - و - ص) (ح - ا - مذ) ہودہ - ہودج - باقی کے اوپر رکھنے کی عماری -
حوٹق - (ح - و - ن) (ح - ا - مذ) بیوقوف - احمق - دیکھے ہوتے -

حوٹلی - (ح - و - ل) (ا - ا - مٹ) بڑا مکان - عالی شان مکان - محل سزا -

حی - (ح - ص) زندہ رہنے والا - خدا تعالیٰ کا ایک نام -
حیا - (ح - ی - ا) (ح - ا - مٹ) شرم - حجاب - لحاظ - غیرت -

حیا آنکھوں سے دھو ڈالنا - (ا - مجاورہ) دیدہ دلیر ہو جانا - بے شرم ہو جانا
حیا دار حیا مند - (ح - ف - ص) حیرت مند - لحاظ والا - نیک بخت - شرمیلا -
حیا والا اپنی حیا سے ڈرا - بے حیا جانے مجھ سے ڈرا - (ا - ش) (ش)
شریف آدمی کا اپنی عزت کی خاطر بد معاش سے پہلو تہی کرنا اور بد معاش کا
اُسے دبا جان کر زیادہ سر چڑھنا -

حیات - (ح - ی - ات) (ح - ا - مٹ) زندگی - زیست - عمر - جان - روح -
حیات ابدی - حیات جاودانی - (ح - ا - مٹ) ہمیشہ کی زندگی - نجات -

حیات بخش - زندگی دینے والا -
حیات پیمائی - شماریاتی طریقہ کار کو حیاتیاتی امور پر استعمال کرنے کا علم -
(انگ) (Biometry)

حیات تازہ پانا - (ا - مجاورہ) نئی زندگی پانا - خطرناک بیماری سے اچھا ہونا -
حیات جاوید - (ح - ف - ا - مٹ) ہمیشہ کی زندگی -

حیات مستعار - مانگے کی زندگی - بے بنیاد زندگی - ناقابل اعتبار زندگی -
حیاتی - (ح - ی - اتی) (ح - ا - مٹ) زندگی - حیات -

حیاتیات - (ح - ی - اتی - آت) (ح - ا - مٹ) جانوروں اور پودوں کا علم -
(Biology) بیالوجی -

حیا میں - (ح - ی - اتیں) (ح - ف - ا - مٹ) وہ کیمیائی اجزاء جو انسان اور
جانوروں کی غذا میں ہوتے ہیں اور جن کی کمی خرابی صحت یا بیماری کا باعث
ہوتی ہے - (انگ) (Vitamin)

حیثیت - (ح - ی - یث) (ح - ا - مٹ) بساط - قدرت - مقدور (۲) اُبرد -
عزت (۳) مائتاد - ملکیت - آمدنی - دولت (۴) رتبہ - درجہ - پایہ (۵) اسلوب
وضع - طرز - ڈھنگ - جمع حیثیات -

حیثیت بگاڑنا - بے عزت کر دینا -
حیثیت بگڑنا - مزید ہو جانا - دیوالیہ ٹکانا - عزت جاتی رہنا - بے عزت ہونا
حیثیت رکھنا - (ا - مجاورہ) قابلیت ہونا - گنجائش رکھنا - ملکیت

ہونا - سمانا -
حیثیت سے بڑھ کر - (ا) بساط سے زیادہ - مقدور سے باہر -
حیثیت عمرنی - (ح - ا - مٹ) یعنی ہوئی عزت - مانی ہوئی حیثیت - ساکھ -

حیثیت ہونا - (ا - مجاورہ) لیاقت ہونا - بساط ہونا -
حیدر - (ح - و - ا) (ح - ا - مذ) شیر - حضرت علی کا لقب -

حیدری - (ح - و - ری) (ح - ف - ص) حیدر سے منسوب شیوں کا ایک فرقہ -
حیران - (ح - و - ان) (ح - ص) ہٹکا بٹکا - حیرت زدہ - دلگ - متمیز - متعجب -

حیرانی - (ح - و - انی) (ا - ا - مٹ) پریشانی - حیرت - حیرت -
حیرت - (ح - و - ات) (ح - ا - مٹ) اچھٹا - تعجب - حیرانی -

حیرت آفرین حیرت انگیز - (ح - ف - ص) حیرت پیدا کرنے والا -
دلگ کر دینے والا -
حیرت افزا - (ح - ف - ص) حیرانی بڑھانے والا -

کمانے کے لیے کچھ کام کرنا۔
 چیلے رزق بہانے موت۔ (مثل) رزق کوئی نہ کوئی کام کرنے سے
 ملتا ہے۔ موت کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے۔
 حین۔ (ح- ۱۰۔ مذ) وقت۔ زمانہ۔ عرصہ۔
 حین حیات۔ (ح- ۱۰۔ ص) (مث) عمر بھر۔ تابہ زندگی۔ جب تک زندہ ہے۔
 بیٹے جی۔
 حیوان۔ (ح- ۱۔ مذ) جان (ح- ۱۰۔ مذ) جاندار۔ ذی رُوح (۲) مویشی۔ چوپایہ (۳)
 نادان۔ بے وقوف۔ وحشی۔ جمع: حیوانات۔
 حیوان مطلق۔ (ح- ۱۰۔ مذ) جانور۔ بے سلیقہ۔ بدتمیز۔ بالکل گزار۔
 حیوان ناطق۔ (ح- ۱۰۔ مذ) بولنے والا جانور یعنی انسان۔
 حیوانی۔ (ح- ۱۰۔ مذ) (ح- ۱۰۔ ص) (مث) انسانی کا ہند حیوان سے منسوب (۲) انسانی شرفی
 حیوانیات۔ (ح- ۱۰۔ مذ) (ح- ۱۰۔ ص) (مث) جانوروں کی تاریخ۔ جسم کی
 ساخت اور عادات و اطوار کا علم۔ (انگ) (Zoology)
 حیوانیت۔ (ح- ۱۰۔ مذ) (ح- ۱۰۔ ص) (مث) حیوان کی خاصیت بے شرفی
 بے حیائی۔ بے وقوفی۔
 حی علی الصلوٰۃ۔ اذان کا ایک حصہ۔ نماز کے لیے جلدی آؤ۔
 حق و قیوم لایموت۔ (ح- ۱۰۔ مذ) قائم رہنے والا۔ نذر نے والا۔ خدا تعالیٰ
 کی صفت۔

حیرت زدہ۔ (ح- ۱۰۔ ص) (مث) حیران۔ بھونچکا۔ حیرت کا مارا ہوا۔
 حیض بیض۔ (ح- ۱۰۔ ص) (مث) شور و غوغا۔ تکرار۔ لڑائی جھگڑا۔
 حیض۔ (ح- ۱۰۔ مذ) وہ خون جو عورتوں کو ہر مہینے آتا ہے۔ ماہواری۔
 حیض سے پاک ہونا۔ (ح- ۱۰۔ ص) (مث) عورت کا حیض سے فارغ ہو کر نہانا۔
 حیض سے ہونا۔ (ح- ۱۰۔ ص) (مث) ماہواری ہونا۔ حیض کا خون آنا۔
 حیض کا لٹہ۔ (ح- ۱۰۔ ص) (مث) وہ کپڑا جس سے خون حیض صاف
 کریں (۲) ذیل۔ قابلِ نفرت شخص۔
 حیضی بچہ۔ (ح- ۱۰۔ ص) (مث) (ح- ۱۰۔ ص) (مث) ولد اکرم (۲) شریف۔
 حیضہ۔ (ح- ۱۰۔ ص) (مث) چار دیواری۔ احاطہ۔
 حیض۔ (ح- ۱۰۔ ص) (مث) (ح- ۱۰۔ ص) (مث) (ح- ۱۰۔ ص) (مث) (ح- ۱۰۔ ص) (مث)
 حیضی۔ (ح- ۱۰۔ ص) (مث) (ح- ۱۰۔ ص) (مث) (ح- ۱۰۔ ص) (مث) (ح- ۱۰۔ ص) (مث)
 حیضی کھانا۔ (ح- ۱۰۔ ص) (مث) (ح- ۱۰۔ ص) (مث) (ح- ۱۰۔ ص) (مث) (ح- ۱۰۔ ص) (مث)
 حیل۔ (ح- ۱۰۔ ص) (مث) (ح- ۱۰۔ ص) (مث) (ح- ۱۰۔ ص) (مث) (ح- ۱۰۔ ص) (مث)
 حیلہ۔ (ح- ۱۰۔ ص) (مث) (ح- ۱۰۔ ص) (مث) (ح- ۱۰۔ ص) (مث) (ح- ۱۰۔ ص) (مث)
 حیلہ باز۔ حیلہ ساز۔ حیلہ گر۔ حیلہ جو۔ (ح- ۱۰۔ ص) (مث) (ح- ۱۰۔ ص) (مث) (ح- ۱۰۔ ص) (مث)
 دغا باز۔ کام چور۔
 حیلہ خوالہ۔ مال منول۔ بیت و لعل۔ ہیرا پیری۔
 حیلہ کرنا۔ (ح- ۱۰۔ ص) (مث) (ح- ۱۰۔ ص) (مث) (ح- ۱۰۔ ص) (مث) (ح- ۱۰۔ ص) (مث)

خ

خ اٹھے [ع۔ مؤنث] [۱۱] اردو کا دسواں۔ فارسی کا نوں۔ عربی کا ساتواں حرف۔ ۲۱ حساب الجد میں اس کے پھر سو عدد مقرر ہیں۔ حلقی حرف ہونے کی وجہ سے اس کی آواز حلق سے نکلتی ہے۔ علم نجوم میں یہ سیارۃ مریخ کی علامت ہے۔ یہ قری حرف ہے اس سے پہلے ال "اٹھے تو آواز دے گا

خ-۱

خار نشینت اف۔ ۱۔ ۱۱ [مد] ۱۱) ساہی ایک جنگلی جانور جسم کے جسم پر لیے لپے کانٹے ہوتے ہیں۔ خاردار جنگلی چروا۔

خار خار۔ اف۔ ۱۱) صفت ۱۱) سہ چینی۔ پریشانی۔ بیگلی۔ ریخ۔ رشک یا حسد کے موقع پر آتا ہے [۱۲] [صفت] [بکثرت۔

خار دار اف۔ ۱۱) صفت ۱۱) کانٹوں والا [۲۱] ڈھنگی والا۔ وہ لڑکا جس کے ڈاڑھی نکل آئے۔

خار دینا (۱) محاورہ) ریخ دینا ستانا بھلیف پہنچانا۔ ایذا دینا۔

خار ناز۔ خار نشان (اف) ۱۔ ۱۱) کانٹوں کا جنگل۔

خار کش اف۔ ۱۰) نڈا کٹر پارا۔

خار کھانا (۱) محاورہ) حسد کرنا۔ جلنا۔ دشمنی کرنا۔

خار گزرنانا۔ خار لگنا۔ خار معلوم ہونا۔ خار ہونا (۱) محاورہ) بڑا لگنا۔ کھٹنا ناگوار ہونا۔

خار ماہی (اف) ۱۔ ۱۰) مچھلی کا کاٹا

خار مقلان (اف) ۱۔ ۱۰) ببول یا کیکر کا کاٹا

خار نکالنا (۱) محاورہ) عداوت پوری کرنا۔ انتقام لینا

خار و خاشاک (اف) ۱۰) نڈا کاٹا اور گھاس کو ٹوٹا کر کرٹ۔ بکرا

خار وطن از سنبل و دیگران خوشتر اف۔ مثل) اپنی وطن کے کانٹے بھی دوسری جگہ کے پھولوں سے بہتر ہوتے ہیں۔

خار ہونا (۱) محاورہ) ناگوار گزرنانا۔ بڑا معلوم ہونا ۲۱) حسد ہونا۔ جلن ہونا رشک ہونا۔

خارا اف۔ ۱۰) سخت پتھر۔ نیلا پتھر

خارا تراش اف۔ ۱۰) صفت) پتھر کاٹنے والا۔ سنگ تراش۔

خارا شگاف اف۔ ۱۱) صفت) پتھر میں شکاف ڈالنے والا۔

خارخ (خاروخ) (ع۔ ۱۱) صفت) نکالا ہوا۔ علیحدہ۔ باہر نکلا ہوا (۲) کافر تند

خارخ آہنگ اف۔ ۱۱) صفت) اے سر

خارج از بحث اف۔ ۱۰) مذ) جس کا بحث سے تعلق نہ ہو۔ بحث سے الگ

(۲) جملہ معترضہ۔ فضول بات۔

خارج از عقل (ع۔ ۱۱) صفت) عقل کے خلاف۔ بعید از عقل (۲)

(صفت) احمق۔ گاؤری۔

خارج قسمت (ع۔ ۱۰) مذ) عدو جو مقسوم کو مقسوم علیہ پر تقسیم کرنے سے حاصل ہو۔ حاصل قسمت۔

خارج کرنا (۱) مص۔ مرکب) نکالنا۔ باہر نکالنا۔ علیحدہ کرنا (۲) مقدمہ کے دعوت کو رد کر دینا۔

خارج ہونا (۱) مص۔ مرکب) نکالنا۔ باہر ہونا۔ جدا ہونا (۲) مقدمہ کو پس ہونا

خاتم (خ۔ تم) (ع۔ ۱۱) صفت) ختم کرنے والا۔ اخیر یا انجام کو پہنچانے والا۔ جمع خاتم خاتم الانبیاء۔ خاتم المرسلین۔ خاتم النبیین۔ تمام نبیوں کی نبوت ختم کرنے والے۔ آخری پیر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم (خ۔ تم) (ع۔ ۱۰) صفت) [۱۱] انگوٹھی۔ انگشتری (۲) چھاپ۔ مجموعہ خواتم خاتم الانبیاء۔ خاتم النبیین (ع۔ ۱۰) مذ) حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب۔ کیونکہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آپ پر نبوت ختم ہو چکی ہے۔ آپ نبوت کے اختتام پر عمر کی حیثیت رکھتے ہیں خاتم بندی۔ خاتم کاری (ع۔ ۱۰) صفت) امانتی دانت۔ ہڈی یا کھڑکی پر پھول پتی بنانے کا فن۔

خاتم سلیمان (ع۔ ۱۰) صفت) حضرت سلیمان کی انگوٹھی جس پر کہتے ہیں کہ یہ خاتم عظم لکھا ہوا تھا اور اس کے باعث تمام مخلوقات آپ کی مطیع تھیں۔ خاتمہ احاطت۔ (ع۔ ۱۰) مذ) [۱۱] انجام۔ عاقبت۔ اخیر۔ تجزیہ (۲) موت و رحلت۔ انتقال (۳) وہ عبارت جو اختتام پر لکھی جاتی ہے۔

خاتمہ بالجز (ع۔ ۱۰) مذ) [۱۱] نیک انجام (۲) اخیر وقت ایمان کی سلامتی اور زیندگی کے ساتھ گزرنانا۔ گلستا مرجانا۔

خاتمہ ہونا (۱) انجام کو پہنچنا۔ تمام ہونا۔ پورا ہونا (۲) فوت ہونا۔ گزر جانا۔

خاتون (خاتون) (ن) ات) ۱۰) صفت) بیوی۔ امیرزادی۔ معزز عورت۔ بیگم جمع خواتین۔

خاتون جنت اف۔ ۱۰) صفت) جنت کی شہزادی۔ حضرت فاطمہ زہرا کا لقب خاتون عرب (ع۔ ۱۰) صفت) لقب حضرت فاطمہ (۲) لقب خاتون ملک (ع۔ ۱۰) صفت) آسمان کی شہزادی (۱) چاند (۲) زہر۔

(۳) نامید۔

خادم (خادیم) (ع۔ ۱۰) مذ) [۱۱] خدمت کرنے والا۔ نوکر۔ ملازم۔ انکسار کے طور پر اپنے لیے بھی کہا جاتا ہے۔

خادم درگاہ (اف) ۱۰) صفت) کسی درگاہ کی خدمت کرنے والا۔ محاورہ۔ خادمان (خادمان) (ع۔ ۱۰) مذ) ایک سے زیادہ ملازم۔ خادم کی جمع خادمانہ۔ (خا۔ د۔ نا۔ نہ) (ن) صفت) خادم کی ماہر۔

خادمہ۔ (خا۔ د۔ نہ) (ع۔ ۱۰) صفت) [۱۱] ملازمہ۔ خادم کی تائینت۔ جمع خادمانہ خازن (ن) ۱۰) مذ) کاٹنا۔ چھانسن (۲) مریخ کے پاؤں کا کاٹنا جو مٹنے کے ابھر ہوتا ہے (۳) حسد۔ رشک۔ جلن (۴) ڈاڑھی کے سخت بال۔

خازن ہونا (۳) حسد۔ رشک۔ جلن (۴) ڈاڑھی کے سخت بال۔

خازن بست۔ خار بند اف۔ ۱۰) مذ) کانٹوں کی بار۔

خاطر خواہ (ف۔ صفت) موافق طبع۔ حسب مرضی۔ حسب منشا۔ خواہش کے مطابق۔

خاطر داری (ع۔ ف۔ ۱۔ مٹ) تواضع۔ مدارات۔ جہان نوازی۔ اڈ بھگت خاطر داشتی (ع۔ ف۔ ۱۔ مٹ) [ق] خاطر مدارات۔

خاطر سے (ع۔ ۱۰۔ لحاظ سے۔ پاس سے۔

خاطر خاطر (ع۔ ف۔ ۱۰۔ مٹ) پاکیزہ طبیعت

خاطر کرنا (۱۱۔ محاورہ) اڈ بھگت کرنا۔ جہان نوازی کرنا۔ (۱۲) دل جوئی کرنا۔

خاطر کی لینا (۱۱۔ محاورہ) طرف داری کرنا۔

خاطر مدارات (ع۔ ف۔ ۱۔ مٹ) اڈ بھگت۔ جہان نوازی۔

خاطر میں آنا (۱۱۔ محاورہ) خیال میں آنا۔ عزت ہونا۔

خاطر میں رکھنا (۱۱۔ محاورہ) دھیان رکھنا۔ خیال رکھنا۔

خاطر میں گزرنے (۱۱۔ محاورہ) دل میں خیال گزرنے۔ خیال گزرنے۔

خاطر میں نہ لانا (۱۱۔ محاورہ) خیال نہ کرنا۔ عزت نہ کرنا۔ بات نہ پوچھنا۔ پرواہ نہ کرنا۔

خاطر نشان ہونا (۱۱۔ محاورہ) بات کا دل میں بیٹھ جانا

خاطر کشین (ع۔ ف۔ صفت) دل میں اترنے والی۔ ذہن نشین۔ جو دل میں بیٹھ جائے (۲۱) کنایت پسندیدہ۔ پیارا۔

خاطر ہونا (۱۱۔ محاورہ) اڈ بھگت ہونا۔ مدارات ہونا۔

خاطر اُٹا۔ (ط۔ رن [ع۔ صفت] [۱۱] دل سے (۲۱) کسی کا لحاظ کرتے ہوئے۔ پاس کرتے ہوئے۔

خاطفت (خا۔ طفت) [ع۔ صفت] اُچکے جانے والا۔ چھین لینے والا۔

بجلی کی صفت۔

خاجلی (خا۔ طی) [ع۔ صفت] گناہگار۔ خطا کار۔ پاپی۔ مجرم

خانی (خا۔ فی) [ع۔ صفت] پوشیدہ۔ چھپا ہوا۔ خفیہ۔

خانان (خا۔ قان) [ت۔ ۱۔ مذ] سلطان۔ بڑا بادشاہ۔ چین اور ترکستان کے سابق بادشاہوں کا لقب۔

خاقانی (خا۔ قانی) [ت۔ صفت] داغ (۱۱) شاہی (۲۱) ایران کے ایک مشہور نقیدہ گو شاعر کا تخلص۔

خاک (ف۔ ۱۔ مٹ) (۱۱) مٹی۔ دھول (۲) زمین۔ دھرتی (۳) کچھ ذرا۔ (۴) کچھ نہیں۔ بالکل نہیں (۵) راکھ بھجھوت (۶) کیونکر۔ کس طرح۔ (۷) تیز۔ سرشت۔

خاک آلودہ (ف۔ صفت) مٹی سے بھرا ہوا۔

خاک اڑانا (۱۱۔ محاورہ) اگرد اڑانا (۲) بدنام کرنا۔ (۳) آوارہ پھرنا۔

خاک اڑنا (۱۱۔ محاورہ) دھول اڑنا۔ گرد اڑنا۔ (۲) اُرسوا ہونا۔ مٹی پلید ہونا (۳) تباہ ہونا۔ برباد ہونا۔ کچھ نہ رہنا (۴) پریشان نظر آنا۔ رونق نہ ہونا۔ ویران ہونا۔

خاک انداز (ف۔ ۱۔ مذ) کوڑا کرکٹ ڈکنے کا برتن (۲) قلعہ یا مکان میں وہ سوراخ جس سے کوڑا کرکٹ پھینکنے میں بادشمن پر تیر یا پتھر برساتے ہیں۔ یا بندوق چلائے ہیں۔ (۳) بھادڑا۔ بیلچہ (۴) نیچے کا حاشیہ (۵) آدھ برتن جس سے چولہے کی راکھ نکالتے ہیں۔

خاک ایسی زندگی پر (۱۱۔ مٹ) جب زندگی بڑے حالوں گزر رہی ہو تو اس موقع پر ہوتے ہیں۔ تھ ہے ایسے جینے پر خاکباز (ف۔ ۱۔ صفت) کھلندڑا۔

خاکبازی (ف۔ ۱۔ مٹ) مٹی سے کھیلنا۔ ایک دوسرے پر خاک ڈالنا۔

خاک بر زمین (ف۔ ۱۔ مٹ) زمین میں خاک۔ منہ سے بڑی بات نکالنے پر کہتے ہیں

خاک برسنا (۱۱۔ محاورہ) دھول اڑنا۔ گرد اڑنا (۲) ویرانی برسنا۔ بے رونق ہونا

خاک کسہ (ف۔ صفت) پریشان حال۔ غراب و خشنہ

خاک پاؤں (ف۔ صفت) (۱۱) پاؤں کے پچھے کی مٹی (۲) نہایت خفیہ چیز۔ عاجز مسکین۔

خاک بھانگنا (۱۱۔ محاورہ) (۱) آوارہ پھرنا۔ (۲) جھوٹ لونا (۳) ہتھان لگانا۔

خاک تودہ (ف۔ ۱۔ مذ) نشانہ لگانے کا مٹی کا ڈھیر۔ آماجگاہ۔ چاند ماری کی دیوار

خاک چھڑھنا (۱۱۔ محاورہ) مار پیٹ کا کوئی اثر نہ ہونا۔

خاک جھونکنا (۱۱۔ محاورہ) دھوکا دینا۔ خاک ڈالنا۔

خاک جاٹ کر بات کہنا (۱۱۔ محاورہ) گڑ بگڑ کر لونا۔ مجر و انکسار سے بچ کر کہنا۔ دعوے کی بات کو مجر کے ساتھ ظاہر کرنا۔

خاک جاشنا (۱۱۔ محاورہ) مجر و انکسار کا اظہار کرنا۔

خاک چھٹانا (۱۱۔ محاورہ) آوارہ پھرنا۔ سرگرداں پھرنا (۲) تباہ و برباد ہونا (۳) خوب تلاش کرنا۔

خاک دان (ف۔ ۱۔ مٹ) مٹی اور کوڑا کرکٹ ڈالنے کی جگہ (۲) راکھ دان (۳) ادنیٰ۔

خاک دھول (۱۱۔ مٹ) (۱) کچھ نہیں۔ (۲) گھٹیا اور بے کار چیز

خاک ڈالنا (۱۱۔ محاورہ) [۱] رفع دفع کرنا۔ لعنت بھیجنا۔ چھوڑنا (۲) کنایت عیب پوشی کرنا۔

خاک ڈالے چاند نہیں چھینتا (۱۱۔ مٹ) [۱] بڑائی کرنے سے کسی کی خوبی چھینتی

خاک راہ (۱۱۔ مٹ) [۱] ذلیل۔ خفیہ۔ ترح۔

خاک رگوب (ف۔ ۱۔ مذ) اہمتر۔ بھگتی۔ حلال خور

خاک سار (ف۔ صفت) مثل خاک۔ فروتن۔ عاجز۔ متکلم اپنے لیے اظہار فروتنی کے واسطے استعمال کرتا ہے (۲) علامہ مشرقی کی قائم کردہ ایک سیاسی جماعت۔

خاک ساری (ف۔ مٹ) فروتنی۔ مجر۔ انکسار۔ عاجزی۔

خاک سیاہ ہو جانا (۱۱۔ محاورہ) اجل کرنا۔ گھٹنا۔ تباہ و برباد ہو جانا۔

خاک تیسے پاک کرنا (۱۱۔ محاورہ) ادنیٰ رتبے سے اعلیٰ رتبے پر پہنچانا۔

خاک شفا (ف۔ ۱۔ مٹ) [۱] شفا بخشنے اور تندرست کردینے والی مٹی (۲) کرلا کی خاک۔ ملکہ معطل اور مدینہ منورہ کی خاک۔

خاک شو پیش ازاں کہ خاک شوکی (ف۔ مٹ) [۱] مقولہ مرنے سے پہلے مر جا۔ مرنے سے پہلے عاجزی اور فروتنی کی عادت ڈالنی چاہیے۔

خاک کا پینلا (۱۱۔ مذ) آدمی۔ انسان۔

خاک کا پتھو نہ ہونا (۱۱۔ محاورہ) زمین میں دفن ہونا۔ خاک میں ملنا۔ مر جانا

خاک کا لے جانا (۱۱۔ محاورہ) جہاں کی مٹی ہوتی ہے۔ وہیں دفن ہونا ہے

خاک کرنا۔ کر دینا (۱۱۔ محاورہ) (۱) جلا کر راکھ کرنا۔ برباد کرنا (۲) کچھ نہ کرنا

خاک کے گھر کو لاکھ بنا نا۔ ۱۱۔ محاورہ اغرب کو امیر بنا نا۔
 خاک کے مول (۱۔ صفت بہت سستا، نہایت ارزاں۔
 خاک لے ڈالنا (۱۱۔ محاورہ) بار بار جانا۔ اپنے مطلب سے کسی کے پاس بار بار جانا۔
 خاکم بدہن (۱۱۔ محاورہ) میرے منہ میں خاک۔ کوئی بڑی بات کہنی ہو تو کہتے ہیں۔
 خاک میں ملانا (۱۱۔ محاورہ) ۱۱۔ برباد کرنا (۱۲) ضائع کرنا۔ رازبگاہ کرنا (۳۱) مار ڈالنا۔ (۳۱) ذلیل و مسو کرنا (۵۱) زمین کا پونہ کرنا۔ ناپید کرنا۔ خاک میں مل جائے (۱۱۔ کوستا) مر جائے۔ تباہ ہو جائے۔
 خاک میں ملنا (۱۱۔ محاورہ) تلفت ہونا۔ ضائع ہونا (۲) دفن ہونا (۳۱) پریشانی ہونا۔ برباد ہونا۔
 خاک ناسے۔ خشکی کا وہ تنگ قطعہ جو خشکی کے دو بڑے قطعات کو ملائے خاک نہ دھول بکاشن کے پھول (۱) جس کا کام نہ کاج کے نکتے۔
 خاک نشین (۱) صفت خاکسار۔ منکر لہراج۔ متواضع۔ خلیق۔ زمین پر بیٹھے والا۔
 خاک نہیں (۱۱) کچھ نہیں۔
 خاک و خون میں ملانا (۱۱۔ محاورہ) برباد کرنا۔ مٹانا۔ فنا کرنا۔
 خاک ہاتھ نہ آنا (۱۱۔ محاورہ) کچھ نہ ملنا۔
 خاک ہو جانا۔ خاک ہو نا (۱۱۔ محاورہ) اگل کر مٹی ہو جانا۔ بوسیدہ ہو جانا۔ کچھ نہ ہونا۔ تباہ ہونا۔ برباد ہونا۔
 خاکستری خاکس۔ تڑا (۱۔ صفت) راکھ۔ بھیموت۔
 خاکستری (۱) صفت مٹی کے رنگ کا۔ مٹیالا۔
 خاکسئی (خاک۔ سی) (۱۔ صفت) خوب کلاں۔ ایک نہایت باریک ترخ جو بخار کی دوا ہے۔
 خاکش بدہن (۱۱۔ صفت) بدہن (۱۱) مٹ کے منہ میں خاک۔ کسی نے کوئی بڑی بات کہی ہو تو اس کے متعلق کہتے ہیں (۱۱) اس کا سینا اس ہونے سے منہ سے کوئی بڑی نکلے یا نکلنے کا ارادہ ہو تو خاکم بدہن کہتے ہیں خاکہ۔ خاک کا (۱۱۔ صفت) (۱) مذ (۱) وہ نقشہ جو صرف حدود کی لکیریں کھینچ کر بنایا جائے (۲) ڈھانچہ۔ چربہ۔
 خاکہ تارنا (۱۱۔ محاورہ) (۱) کئی نقشہ کھینچنا۔ کاغذ وغیرہ پر حدود کے نشان ڈالنا (۲) مشورہ کرنا (۳) رسوا کرنا۔ بدنام کرنا۔ مضحکہ اڑانا۔
 خاکہ اڑانا (۱۱۔ محاورہ) (۱) نقل آتارنا۔ نقشہ کھینچنا (۲) بدنام کرنا۔ رسوا کرنا۔ مضحکہ اڑانا۔
 خاکہ کھینچنا۔ خاکہ بنانا (۱۱۔ محاورہ) کئی نقشہ بنانا۔ مسودہ تیار کرنا۔
 خاکری (خاکری) (۱) صفت (۱) خاک کا۔ خاک کی پیدائش۔ مجازاً انسان۔ (۲) مٹیالا۔ خاک کے رنگ کا۔ (۳) (۱) مذ (۱) فیروز کا ایک فرقہ جو حاکی شاہ کا پیر دے (۲) اسی بپٹی کے سپاہی جن کو ۱۸۵۷ء کی جنگ میں رانگر یوز نے حاکی وردی دی تھی۔
 خالی انداز (۱۱۔ مذ) انداز جو معنی جوڑا کھائے بغیر دے۔ ایسے اندے

سے کچھ نہیں نکل سکتا۔ ۲۱۔ حرامی۔ حرام کا۔
 خاکی (انڈوں سے بچے پیدا نہیں ہوتے (۱۱۔ مثل) کینے سے فائدے کی کوئی امید نہیں ہوتی۔
 خاکی نہاوت (۱۱۔ صفت) بہت خلیق۔ نرم دل۔
 خاکیاں (۱۱۔ صفت) (یاں) (۱) مذ (۱) مسلمان درویشوں کی ایک برادری۔
 خالک (۱۱۔ مذ) انداز۔
 خال کینہ (۱۱۔ صفت) (۱) مذ (۱) تلے ہوئے انڈے۔ انڈوں کا سائے تلے ہوئے انڈے۔ اور کتری ہوئی چمیز ملا کر قہر کی طرح پکایا ہوا سائے۔
 خال (۱۱۔ صفت) (۱) مذ (۱) وہ قدرتی سیاہ نقطہ جو چہرے یا جسم پر ہوتا ہے۔
 خال (۱۱) دو رنگ کبوتر۔ سفیدی کے ساتھ اور رنگ ملا ہوا کبوتر (۳) کاہل کا وہ نشان جو نظر بد سے بچانے کے لیے خوبصورت یا کم سن بچوں کے چہرے پر لگاتے ہیں (۲) ماموں۔ خالو۔
 خال جو چڑھا ہوا (۱۱۔ مثل) (۱) اپنی حد سے بڑھی ہوئی چیز بدنام ہوتی ہے خال خال (۱) اکاڑ کا۔ بہت کم۔ کہیں کہیں۔ شاذ و نادر۔ کوئی کوئی۔
 خالائی (۱۱۔ صفت) (۱) صفت خال کی طرف منسوب۔
 خالائی (۱۱۔ صفت) (۱) صفت خالو۔
 خالص (۱۱۔ صفت) (۱) صفت اصل۔ کھرا۔ جس میں میل نہ ہو۔ نرل۔
 خالصاً للہ۔ خالصاً لوجه اللہ۔ بالکل خدا کے لیے۔
 خالصہ (۱۱۔ صفت) (۱) صفت خالص۔ جو کسی سے ملا ہوا نہ ہو (۲) سرکاری زمین جس میں کسی اور کا حق نہ ہو (۳) (۱) مذ (۱) سکھ سردار سکھوں کی نوع۔
 خالصے لگنا (۱۱) سرکار میں منظم ہونا۔ (۲) ضائع ہونا۔ برباد ہونا۔ تلفت ہونا۔
 خالص (۱۱۔ صفت) (۱) صفت خالص حاصل کرنے والی عورت۔
 خالصت (۱۱۔ صفت) (۱) صفت پیچھے آنے والا۔ خلاف کرنے والا۔
 خالص (۱۱۔ صفت) (۱) صفت (۱) پیدا کرنے والا (۲) خدا کا ایک صفاتی نام۔
 خالو (۱۱۔ صفت) (۱) مذ (۱) خال کا خاندان۔ ماں کی بہن کا خاندان۔
 خالہ (۱۱۔ صفت) (۱) صفت (۱) ماں کی بہن۔ ماؤسی۔
 خالہ جانا (۱۱۔ مذ) خالہ کا بیٹا۔ خالہ زاد بھائی۔ موبسرا۔
 خالہ جی کا گھر نہیں (۱۱۔ محاورہ) آسان کام نہیں۔ معمولی بات نہیں۔ ہنسی کھٹکانا نہیں۔
 خالہ جاننے کا کینہ (۱۱۔ مثل) اس موقع پر ہوتے ہیں۔ جب گھر کا گھر والا حق ہو خالہ زاد بھائی (۱) مذ (۱) خالہ کا بیٹا۔
 خالہ زاد بہن (۱۱۔ صفت) (۱) صفت خالہ کی بیٹی۔
 خالہ کا دم اور کوڑا کی جوڑی (۱۱۔ مثل) تنہائی کی حالت کو کہتے ہیں۔
 خالہ کی عقل بچی (۱۱۔ صفت) (۱) صفت خالہ کی بیٹی۔ خالہ جانی۔
 خالہ کی مہمانی (۱۱۔ صفت) (۱) صفت خالہ کی بیٹی۔ خالہ جانی۔
 خالی (۱۱۔ صفت) (۱) صفت (۱) صفت خالہ جانی۔
 خالی (۱۱۔ صفت) (۱) صفت (۱) صفت خالہ جانی۔
 خالی (۱۱۔ صفت) (۱) صفت (۱) صفت خالہ جانی۔
 غیر مقبوضہ غیر آباد (۱۱) فارغ ہے۔ مشغول (۹) مسلمانوں کا گیارہواں

خاموشی کرنا (۱) محاورہ (۱) چپ کرنا۔ بولنے سے روکنا (۲) جرح بجانا
 خاموشی (خاموشی) [ف-۱۔ مٹ] چپ۔ سکوت۔ سکون۔ رشتا۔
 خاموشی نیم رضا (۱) مقولہ خاموشی سے رضا مندی کا اظہار ہوتا ہے۔
 خامر (خامرہ) [ف-۱۔ مذ] قلم۔ ملک۔ جمع: خامرہ
 خامرہ آرائی [ف-۱۔ مٹ] لکھنا۔ عمدہ عبادت تحریر کرنا۔
 خامرہ فرسٹ [ف-۱۔ صفت] لکھنے والا۔
 خامرہ فرسائی کرنا [ف-۱۔ مٹ] لکھنا۔
 خامی (خامی) [ف-۱۔ مٹ] کچا پن۔ ناچنگی۔ نا تجربہ کاری (۲) نقص کبی
 خان۔ [خامی] ات۔ (۱) مذ اسرار۔ رئیس (۱) ہر امیر رئیس کا لقب۔
 پٹھانوں کا لقب۔
 خان بہادر۔ ایک عزت کا خطاب جو برطانوی سرکار کی طرف سے دیا
 جاتا تھا۔
 خانخاناں (ف-۱۔ مذ) سرداروں کا سردار۔ امیروں کا امیر (۲) مغلیہ
 خاندان کے عہد میں سپہ سالار کا لقب۔ بہار شاہ کے اناپتیق بیرم
 خان اور اس کے بیٹے عبدالرحیم خان کا لقب۔
 خانخاناں جن کے کھانے میں نبطانہ (۱) [مٹ] (۱) بطن چھپی ہوئی چیز
 اس موقع پر لڑتے ہیں جب کوئی شخص پوشیدہ طور سے کسی پر احسان
 کرے (۲) خانخاناں جب کسی غریب کو کھانا بھیجتے تو اس میں پوشیدہ طور پر
 اشرافیان رکھ دیتے تھے۔
 خاندان (ف-۱۔ مذ) نسل۔ قبیلہ۔ گھانا۔ گنہ۔
 خاندانی [ف-۱۔ مٹ] اچھے گھرانے کا نسب پرانا رئیس۔ قدیم۔ خریف۔
 خان زادہ (ف-۱۔ مذ) خان کا بیٹا۔ شہزادہ۔
 خانسا مال (ف-۱۔ مذ) گھر کا سامان کرنے والا۔ داروغہ۔ میر سامان
 (۲) صاحب لوگوں کو کھانا کھلانے والا خدمت گزار۔ میز لگانے والا۔ باؤچی
 خان صاحب (ف-۱۔ مذ) انگریزوں کے عہد کا خان بہادر سے چھوٹا
 خطاب۔ عزت کا کلمہ۔
 خانقاہ (ع-۱۔ مٹ) اردو لیشوں اور مشائخ کے رہنے کی جگہ۔ صومعہ (۲)
 کسی درویش یا پیر کا مقبرہ۔
 خانگی (خانگی) [ف-۱۔ صفت] گھر لویہ۔ گھر کا (۲) بیچ کا۔ ذاتی۔ خاص۔
 (۳) [ا۔ مٹ] وہ خانہ نشین عورت جو گھر بیچے کسب کرنے
 خانگی (گھر لویہ) (۱) محاورہ (خانگی نساہ) آپس کا جھگڑنا۔ اندرون خانہ ناچانی
 آپس کی تکرار۔
 خانم (خانم) [ف-۱۔ مٹ] (۱) اعلیٰ خاندان کی عورتوں کا لقب۔ امیرزادی
 بیگم۔ بیوی (۲) خان کی عورت۔
 خانماں (خانماں) [ف-۱۔ مذ] گھر کا اسباب۔ مال و متاع۔ اثاثہ البیت
 خانماں آوارہ (ف-۱۔ صفت) گھر سے نکلا ہوا گھر سے بے گھر۔ بے ٹھکانہ
 خانماں خراب (ف-۱۔ صفت) اتناہ۔ برباد۔ پریشان۔ ویران۔
 خانوادہ (خانوادہ) [ف-۱۔ مذ] (۱) خاندان۔ گھرانہ (۲) مشائخ یا
 درویشوں کا وہ خاندان جس سے انہیں توسل ہو۔ فقرا کا سلسلہ
 خانوادہ (خانوادہ) [ف-۱۔ مذ] (۱) گھر مکان۔ بیت (۲) کبوتروں یا مرغوں

مہینہ ذیقعد۔ یہ نام نور جہاں بیگم نے رکھا تھا۔ عورتیں اس مہینہ کو مغوس
 سمجھتی ہیں (۱۰) غیر موثر بے اثر (۱۱) عاری۔ مبرا۔
 خالی بلیا کیا کرے اس کو بھی گے دھان اس میں کرے (مثل) کام
 کرنے والا بے کار بیٹھ نہیں سکتا بخیر اسے فضول ہی کام کرنا پڑے
 خالی بیٹھنا (۱) محاورہ (۱) بے کار رہنا۔ بغیر ملازمت کے ہونا۔ بے مددگار رہنا۔
 خالی پھرنا (۱) محاورہ (۱) غروم واپس ہونا۔ پھرنا۔
 خالی پیٹ (۱) مذ ہمار منہ۔ بھوکا جس نے صبح سے کچھ نہ کھایا ہو۔
 خالی جانا (۱) محاورہ (۱) نشا نہ پر بیٹھنا۔ گری نہ لگنا (۲) بے اثر ہونا۔
 خالی خرمی پوری (مضمتنی) [مٹ] جب آدمی کی جیب میں کچھ نہیں ہوتا تو
 ذیل ہی رہتا ہے۔ مجلسی بہت بڑی ہوتی ہے۔
 خالی خولی (۱) صفت (۱) جس کی حقیقت کچھ نہ ہو۔ کھوکھلا۔
 خالی دینا (۱) محاورہ (۱) اس حریف کی ضرب بچا جانا۔ دشمن کے وار سے
 اپنے آپ کو بچا لینا۔ ٹال جانا۔
 خالی سے بیگار کھلی (۱) [مٹ] بیگار بیٹھے سے کسی کام محنت کرنا اچھا ہوتا ہے
 خالی کا چاند (۱) مذ ماہ ذیقعد۔ گیارہواں قمری مہینہ
 خالی کرنا (۱) محاورہ (۱) انڈیلنا۔ نکالنا۔ تھی (۲) بندوبست بھڑکانا (۳) مکان
 کا قبضہ چھوڑنا۔
 خالی ہاتھ (۱) صفت (۱) مفلح۔ نادر۔ تھی دست (۲) محروم (۳) بلا ہمتی یا بغیر کوئی چیز
 خالی ہاتھ منہ کو نہیں جاتا (۱) [مٹ] بغیر فائدے کے کوئی کام نہیں کیا جاتا۔
 خام (ف-۱۔ صفت) [۱] پچا ناچختہ۔ سبز ہرا۔ ادھو کچرا (۲) بورا۔ کزور (۳)
 نا تجربہ کار۔ ناواقف۔ نا آزمودہ کار۔ اناڑی (۴) فضول۔ بے ہودہ۔
 (۵) بند۔ (۶) خالص۔
 خام آمدنی (۱) آمدنی کل آمدنی جس میں خرچ نہ کیا گیا ہو۔
 خام پارہ (۱) مٹ (۱) کچی ٹوٹی ہوئی۔ پھنسال (۲) مکار عورت (۳) ایک
 قسم کی چھوٹی توپ۔
 خام تحصیل (۱) مٹ از بینداری یا ٹھیکیدار کے توسط کے بغیر سرکاری
 لگان کی وصولی۔
 خام نیسانی (۱) مٹ غلط گمان۔ غلط خیال۔ جھوٹا خیال۔ دہم
 خام دست (ف-۱۔ صفت) فضول خرچ۔ نا تجربہ کار۔ اناڑی۔
 خام ریش (ف-۱۔ صفت) بے عقل۔ مسخرا۔
 خام کار (۱) صفت (۱) نادان۔ نا آزمودہ۔ نا تجربہ کار
 خام کرنا (۱) محاورہ (۱) بند کرنا۔ آٹانکا کرنا (۲) کام نہ بند کرنا۔
 خام کو کام سکھا لیتا ہے (مثل) ناواقف آدمی کام کرنے کرتے سیکھ
 جانتا ہے۔
 خاموش (خاموش) [ع-۱۔ صفت] پانچواں۔
 خاموش (خاموش) [ف-۱۔ صفت] خاموش۔ چپ
 خاموشی (خاموشی) [ف-۱۔ مٹ] خاموشی۔ چپ
 خامنا (خام) [نا۔ صفت] (۱) برتن کے منہ کو مٹی یا آٹے سے بند کرنا
 (۲) مہر لگانا۔ بند کرنا
 خاموش (خاموش) [ف-۱۔ صفت] چپ۔ ساکت (۲) جھا ہوا (۳) مرد

خاندان ویراں اف۔ صف اخاند بر باد۔
 خاندان ویرانی اف۔ ۱۰۔ منٹ اگھر کی تباہی بر بادی۔
 خانے دار اف۔ ۱۔ صف اوہ چیز جس میں خانے بنے ہوئے ہوں۔
 خاور (خا۔ و۔ ر) اف۔ ۱۔ مذ [(۱۱) مشرقی۔ لورب (۲) سورج۔
 خاوراں (خا۔ و۔ راں) اف۔ ۱۔ مذ [مشرق اور مغرب۔
 خاورمی (خا۔ و۔ ری) اف۔ ۱۔ صف [مشرقی۔ مغربی۔ سورج سے منسوب۔
 خاوند (خا۔ و۔ نڈ) اف۔ ۱۔ مذ [آقا۔ مالک (خاوند کا محفف (۲۱) شوہر
 خاوند کرنا ۱۱۔ محاورہ عورت کا اپنے آپ شادی کرنا۔
 خاوندی (خا۔ و۔ ی) اف۔ ۱۔ صف [بندہ نوازی۔ مہربانی۔ عنایت
 خائب (خ۔ ۱۔ ۱۔ صفت) محروم۔ نا امید (مذ) نادار۔ غریب۔
 خالض (خ۔ ۱۔ ۱۔ صفت) اغور کرنے والا۔
 خالفت (خا۔ اف) اف۔ ۱۔ صف [ڈرنے والا خوف کھانے والا۔
 خارن (خا۔ ان) (ع۔ صفت) خیانت کرنے والا۔ بددیانت
 خائمت (خ۔ ۱۔ ۱۔ صفت) خائن کی تائیت۔
 خایہ (خا۔ ی) اف۔ ۱۔ مذ [(۱) بیضہ (۲) خلیہ۔ نوط
 خایہ بردار خایہ بوس اف۔ ۱۔ صف [خوشامدی۔ چاہلوس۔
 خایہ غلاماں (خ۔ ۱۔ ۱۔ مذ) انگور کی ایک قسم۔

خاڈ بہ (۳۱) آشیانہ۔ گھونسل (۳۱) صند وچ کے اندر کا حصہ (۵) اشطربخ
 کی بساط کا ایک حصہ (۶) پیٹ، ششم (۷) انگوٹھی میں وہ جگہ جہاں
 نگیل نہ رکھے ہیں۔
 خانہ آباد۔ دولت زیادہ (۱)۔ کھڑو (خا) دولت واقراود گھر بھر ہے۔
 خانہ اپنے گھر خوش ہم اپنے گھر خوش۔
 خانہ آبادی اف۔ ۱۔ صف [خوشحالی۔ گھر بسانا۔ شادی۔
 خانہ باغ (خ۔ ۱۔ ۱۔ صفت) مکان کی چار دیواری کے اندر کا باغ
 خانہ بدوش (خ۔ ۱۔ ۱۔ صفت) (۱۱) آدرہ۔ پریشان بے ٹھکانہ (۲) وہ قوم
 یا آدمی جو گھر کو ساتھ ساتھ لیے پھرتے ہیں۔
 خانہ بر انداز (خ۔ ۱۱) گھر بار اچھا ڈھینچا (۲) کنا بیٹہ معشوق
 خانہ بر بادی اف۔ ۱۔ صف [اگھر کی تباہی۔ کنا بیٹہ بیوی کا مر جانا۔
 خانہ پڑی (خ۔ ۱۔ صفت) نقشہ بھرنا۔ سرکاری مقررہ نقشوں کا پڑ کرنا۔
 (۲) کسی کام کو فقط رسمی طور پر کرنا۔
 خانہ تلاشی اف۔ ۱۔ صف [اگھر کی تلاشی کسی قابل اعتراض چیز کے ٹھونڈنے
 کے لیے حکومت کی طرف سے مکان کا سارا سامان الٹ پلٹ کر دینا
 خانہ جنگی اف۔ ۱۔ صف [اگھر کے جھگڑے۔ آپس کی لڑائی۔ ملک کے
 اندر مختلف گروہوں۔ جماعتوں یا فرقوں کی لڑائی۔
 خانہ مخالی را دلومی گروہ اف۔ ۱۔ صف [مخالفت کا گروہ دیونقضہ کہتے ہیں
 گھر کو خالی نہیں چھوڑنا چاہتے۔
 خانہ خانہ (۱۱۔ ۱۔ ۱۔ صفت) ایک ایک خانہ۔ ایک ایک گھر۔
 خانہ خدا اف۔ ۱۰۔ ۱۔ صف [خدا کا گھر۔ مسجد
 خانہ خراب (خ۔ ۱۔ ۱۔ ۱۰۔ ۱۱) اجڑا ہوا۔ تباہ و بر باد و خستہ حال
 (۲) آدرہ۔ بدوضع۔
 خانہ خرابی اف۔ ۱۔ صف [ابر بادی۔ تباہی۔ ستیلا ناس
 خانہ خرابی بر پا کرنا ۱۱۔ محاورہ ابر بادی لانا۔
 خانہ بخار اف۔ ۱۰۔ ۱۔ صفت [ابر بادی۔ تباہی۔ ستیلا ناس
 خانہ داری اف۔ ۱۰۔ ۱۔ صفت [اگھر بار کا کام کاج۔ گھر کے معاملات انتظام
 خانہ داماد اف۔ ۱۰۔ ۱۔ صفت [داماد جو بوس سال میں رہتا ہو۔
 خانہ زاد اف۔ ۱۔ ۱۔ صفت [مالک کے گھر میں پیدا ہونے والا غلام۔ لونڈی
 کا بچہ۔ پرستار زادہ۔ نکساری کا گھر۔
 خانہ زنجیر اف۔ ۱۔ ۱۔ صفت [زنجیر کا حلقہ۔ قید خانہ۔ پاگل خانہ
 خانہ ساز آگ۔ صفت [اگھر کا بنا ہوا۔
 خانہ شمار (خ۔ ۱۔ ۱۔ صفت) اگھروں اور مکانوں کا شمار کرنا۔
 خانہ شہر اف۔ ۱۔ ۱۔ صفت [برج اسد
 خانہ عقلموت (خ۔ ۱۔ ۱۔ صفت) (۱) کلمی کا جالا
 خانہ کمان اف۔ ۱۔ ۱۔ صفت [کمان کے دونوں بازو۔
 خانہ ملاح در چین است و کشتی و فرنگ اف۔ ۱۔ صفت [مثل جب
 کوئی تدبیر سمجھیں آئے مگر اس عمل کرنا ممکن نہ ہو تو کہتے ہیں۔
 خانہ نشین (خ۔ ۱۔ صفت) (۱) گھر بیٹھنے والا۔ گوشہ نشین (۲) معتدل بیجا
 خانہ ولحد و محضا۔ اپنا ہی گھر سمجھنا۔ بے لطفی سے کام لینا۔

خ-ب

خباثت (خ۔ با۔ شت) (ع۔ ۱۔ ۱۔ صفت) [(۱۱) ناپاکی۔ گندگی (۲) بد بطنی۔
 شرارت۔
 خباثہ (خ۔ با۔ ت) (ع۔ ۱۔ ۱۔ صفت) [(۱) آٹما گوندھنے والا۔
 خباثت (خ۔ با۔ شت) (ع۔ ۱۔ ۱۔ صفت) [(۲) خستہ کی جمع (۳) گندگیاں ناپاکیا
 (۴) برائیاں۔ برے کام۔
 خبیثت (خ۔ ۱۔ ۱۔ ۱۱) پلیدی۔ گندگی (۲) بد بطنی۔ برائی۔ شرارت۔
 خبیثت الحدید (خ۔ ۱۔ ۱۔ صفت) [لوہے کا تیل
 خبیث باطن (خ۔ ۱۔ ۱۔ صفت) [بد بطنی۔ شرارت۔
 خیر (خ۔ یر) (ع۔ ۱۔ ۱۔ صفت) [(۱) اطلاع۔ آگاہی۔ واقفیت (۲) پیغام
 سندیس (۳) افواہ (۴) حدیث نبوی۔ (۵) پتہ۔ نشان۔ سرخ (۶) پوش
 سہ سمجھ (۷) حال (۸) سنارونی۔ موت کی اطلاع۔ جمع : اخبار
 خیر (خ۔ یر) (ع۔ ۱۔ ۱۔ صفت) [(۱) اطلاع آمد موت کی سنارونی کا آنا۔
 خیر اڑانا ۱۱۔ محاورہ الجھوٹی بات مشور کرنا۔ افواہ اڑانا۔
 خیر بھی ہے (۱)۔ محاورہ تم نہیں جانتے۔ الزام دینے وقت کہتے ہیں۔
 خیر پر خیر (۱)۔ محاورہ معلوم ہونا۔ اطلاع بھیجنا۔
 خیر پھینا ۱۱۔ محاورہ حال دریافت کرنا۔ خبر جو عنایت دریافت کرنا۔
 خیر پھینا ۱۱۔ محاورہ کسی واقعہ کی اطلاع کا عالم ہونا۔
 خیر وار (خ۔ یر) (ع۔ صفت) (۱) خبر دہنے والا۔ واقف۔ آگاہ۔ (۲) ہونہار۔
 چورس چوکنا (۳) [تشبیہ کا کلمہ ہے) سرگز۔ زینہار (۴) مخبر۔ جاسوس

ختمہ (۱۔ مذ) عبارت میں وقفہ گانے کی علامت۔
 ختمی مرتبت (ع۔ صف) دیکھیے خاتم النبیا۔
 ختم حق (ح۔ جن) [ف۔ ۱۔ مذ] ترکستان میں ایک علاقہ جہاں کاشنگ مشہور ہے۔
 ختم ختم (ع۔ جن) [ع۔ ۱۔ مذ] عربی میں ختم کاٹنا مسلمانوں اور یہودیوں کی ایک رسم جس میں پتھر کے عضو تناسل کا زائند چھڑا کاٹا جاتا ہے۔ یہ سنت ابراہیم علیہ السلام ہے۔

خبردار ہونا (مص۔ مرکب) آگاہ ہونا۔ ہوشیار ہونا۔
 خبرداری (ع۔ ف۔ ۱۔ مٹ) [ا۔ انکبہانی حفاظت۔ ہوشیاری۔ احتیاط۔ خبر رسال (ع۔ ف۔ ۱۔ مذ) خبر پہنچانے والا۔
 خبر دہندہ (ع۔ ف۔ ۱۔ مذ) اطلاع دینے والا۔ خبر رسال۔ ابلیجی خبر رکھنا (۱۔ محاورہ) واقف ہونا۔ خیال رکھنا۔ آگاہ رہنا۔
 خبر گرم ہونا (۱۔ محاورہ) کسی بات کا مشہور ہونا۔
 خبر گیری (ع۔ ف۔ ۱۔ مٹ) دیکھ بھال۔ خبرداری (۲) دستگیری۔ اعانت۔ خبر لگانا (۱۔ محاورہ) سراغ لگانا۔ پتہ لگانا۔ کھگانہ معلوم کرنا۔
 خبر لینا (۱۔ محاورہ) [۱] مدد کو آنا۔ دستگیری کرنا [۲] پوچھنا۔ دریافت کرنا [۳] مارنا۔ مزادینا [۴] نگرانی کرنا [۵] لعنت ملامت کرنا۔ آزاد رہنا [۶] حالت بہتر خود کرنا۔

خ۔ ٹ

خٹا (ح۔ ط) [ا۔ ۵۔ ۱۔ مذ] خایہ عضو تناسل۔
 خٹے سیلانا (۱۔ محاورہ) خوشامد و چالپوسی کرنا۔ خایہ پوسی کرنا۔

خبر ہونا (۱۔ محاورہ) آگاہی ہونا۔ اطلاع ہونا۔ معلوم ہونا۔
 خبط (ع۔ ۱۔ مذ) سودا۔ جنوں۔ دیوانگی۔
 خبط اچھلنا (۱۔ محاورہ) سودا ہونا۔ جنون ہونا۔ خفقان ہونا۔
 خبط سوار ہونا (۱۔ محاورہ) اے ہودہ خیال دل میں سمانا۔
 خبط ہو جانا ہونا (۱۔ محاورہ) جنون ہونا۔ غلط دھن سمانا۔
 خبطی اخب۔ طحی (ع۔ صف) اپنا گل۔ سودائی۔ دیوانہ۔ جنون۔
 خبیث (ع۔ یث) [ع۔ صف] (۱) ناپاک۔ پلید۔ گندہ (۲) بڑا بد باطن۔ شریر۔
 خبیثہ (ع۔ یث) [ع۔ صف] اخبیث کا مؤنث۔ بد ذات عورت۔
 خبیر (ع۔ یث) [ع۔ صف] (۱) خبر رکھنے والا۔ جاننے والا۔ دانا (۲) خدا تعالیٰ کا صفاتی نام۔

خ۔ ج

خجالا (ع۔ ج۔ لا) [ا۔ ۱۔ صف] بے ہودہ۔ کبواہی۔ یادہ گوہ۔
 خجالت (ع۔ ج۔ لت) [ع۔ ۱۔ مٹ] عربی لفظ محبت کا پیرا ہوا۔ شرمندگی۔ ندامت۔ [۲] شرم۔ جیا۔ انفعال۔
 خجالت کھینچنا (۱۔ محاورہ) شرمندہ ہونا۔ نادوم ہونا۔
 خجستگی (ع۔ جستگی) [ع۔ ۱۔ مٹ] سعادت۔ مبارک پن۔
 خجستہ (ع۔ جسن) [ع۔ ۱۔ مٹ] مبارک۔ فرخندہ۔ مسعود۔
 خجستہ احترام (ع۔ صف) خوش قیمت۔
 خجستہ پے (ع۔ صف) مبارک قدم والا۔
 خجل (ع۔ ج۔ جل) [ع۔ صف] شرمندہ۔ نادوم۔ شرمسار۔
 خجلت (ع۔ ج۔ لت) [ع۔ ۱۔ مٹ] شرمندگی۔ شرمساری۔ ندامت۔ بجات۔
 خجلت زوہ (ع۔ ج۔ لت) [ع۔ ۱۔ مٹ] شرمندہ۔

خ۔ ت

ختک (ع۔ ت) [ع۔ ۱۔ مٹ] [فارسی لفظ گنگ یا تگ کی بگڑی ہوئی صورت] (۱) سونٹا۔ گد کا (۲) جھگ کھوٹنے کا ڈنڈا۔ (۳) گلوٹھا۔ ٹھینگا (۴) آرتناسل۔
 ختم (ع۔ ۱۔ مذ) [۱] خیر۔ انجام۔ انتہا۔ تمام (۲) قرآن شریف کے ختم ہونے کی رسم (۳) فاتحہ۔ نذر۔ نیاز۔ جمع اخواق۔
 ختام (ع۔ ۱۔ مٹ) ختم کرنے والا۔
 ختمان (ع۔ ۱۔ مذ) ختم کرنے والا۔
 ختم الانبیاء ختم المرسلین (الرسل) [ع۔ ۱۔ مذ] دیکھیے خاتم الانبیاء۔
 ختم کھوجگان (ع۔ ج۔ ف۔ ۱۔ مذ) ایک قسم کا خاص عمل جس کا ثواب انواجگان جنت و نقشبند کو پہنچایا جائے۔
 ختم کرنا (۱۔ محاورہ) تمام کرنا۔ قتل کرنا۔ فاتحہ دلوانا۔ نیاز دلوانا۔ قرآن تمام کرنا۔ قرآن شریف پڑھنا۔
 ختم ہونا (۱۔ محاورہ) [۱] انجام کو پہنچنا۔ تمام ہونا۔ فاتحہ ہونا [۲] نیاز ہونا [۳] کسی ہنری عیب میں بے مثل ہونا [۴] ایک ہی کے حصہ میں ہونا۔ [۵] مرجانا۔ قرآن پاک ختم کرنا۔

خ۔ ج

خجائج (ع۔ ج۔ ج) [ع۔ ۱۔ مٹ] [۱] تلواریں چلنے کی آواز۔ کیچڑ میں چلنے کی آواز۔
 خجرائج (ع۔ ج۔ ج) [ع۔ ۱۔ مٹ] وہ دوغلا جانور جو گھسے اور گھوٹی کے ملاپ سے پیدا ہوتا ہے۔

خ۔ د

خدا (ع۔ ۱۔ مذ) [ع۔ ۱۔ مٹ] [۱] تلواریں چلنے کی آواز۔ کیچڑ میں چلنے کی آواز۔
 خدا (ع۔ ۱۔ مذ) [ع۔ ۱۔ مٹ] [۱] تلواریں چلنے کی آواز۔ کیچڑ میں چلنے کی آواز۔
 خدا (ع۔ ۱۔ مذ) [ع۔ ۱۔ مٹ] [۱] تلواریں چلنے کی آواز۔ کیچڑ میں چلنے کی آواز۔

خداوند۔ مرکبات کے آخر میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ مثلاً "نا خدا۔ کتخدا
 خدا اٹھلے" اور دعا خدا مار ڈالے۔ موت آجائے۔ مرجائے۔
 خدا امیر کے پڑوس فیر بھی نہ بولائے (۱)۔ مثل (میر آدمی کی ہسیاگی
 غریب کے لیے تکلیف کا باعث ہوتی ہے۔
 خدا اس کا سہرا دکھائے۔ (۱)۔ مقولہ ایسے کی شادی کے لیے دعا۔
 خدا بچھڑی رات نہ کرے لڑائی رات کرے (۱)۔ مثل اکٹھے رہیں
 خواہ لڑتے ہی رہیں۔
 خدا بخشے اکھڑ دعا خدا گناہوں کو معاف کرے۔ دعائے مغفرت جو
 کسی مڑے کا ذکر کرتے وقت زبان پر لاتے ہیں۔
 خدا بھرے کو بھرتا ہے (۱)۔ مثل اجود و متمند ہوا اس کو خدا اور بھی دیتا ہے
 خدا بھوکا اٹھاتا ہے بھوکا سلاٹا نہیں (۱)۔ مثل (خدا ہر ایک کو
 رزق دیتا ہے۔
 خدا پر تکبیر (توکل) خدا پر بھروسہ۔ خدا پر سہارا۔
 خدا پر چھوڑ دینا۔ خدا پر چھوڑنا (۱)۔ محاورہ (کسی کام کو خدا کی مرضی پر
 چھوڑنا۔ توکل کرنا۔ خدا پر بھروسہ کر لینا
 خدا پرست (۱)۔ خدا کو پوجنے والا۔ زاہد۔ عابد۔ حق پرست۔
 خدا پناہ میں رکھے دعا خدا بچائے۔
 خدا پنج انگشت یکساں نہ کر دات۔ مثل اسب برابر نہیں ہوتے
 ایک سے ایک جدا ہے۔
 خدا جھوٹ نہ بولائے (۱)۔ مثل کوئی غیر معمولی بات کہنے سے پہلے کہتے
 ہیں کہ سچ کہہ رہا ہوں۔
 خدا چاہے۔ اگر خدا کو منظور ہو۔ اگر اللہ نے چاہا۔ انشاء اللہ
 خدا حافظ۔ کلمہ جو کسی کو رخصت کرتے وقت کہتے ہیں اللہ نگہبان۔
 خدا ترس (۱)۔ صفت (۱)۔ خدا سے ڈرنے والا (۲)۔ رخصل۔ نرم دل۔
 خدا جانے۔ دیکھیے اللہ جانے۔
 خدا خدا کرو (۱)۔ روزمرہ اللہ سے ڈر۔ توبہ کرو۔
 خدا خود میر سا مان استغاثہ باب توکل را (۱)۔ مثل اللہ توکل کرنے
 والی خود مدد کرتا ہے۔
 خدا خدا کر کے۔ مشکل سے۔ وقت سے۔ دشواری سے۔
 خدا خدا کر کے کفر ٹوٹا (۱)۔ محاورہ (بڑی مشکل سے راضی کیا
 خدا خدا کرنا (۱)۔ محاورہ (۱)۔ خدا کا نام لینا۔ عبادت کرنا۔ اللہ اللہ کرنا
 خدا خیر کرے (۱)۔ دعا (خطرے کے موقع پر بولتے ہیں اللہ بچائے۔
 اللہ محفوظ رکھے۔
 خدا واد (۱)۔ صفت خدا کی دی ہوئی۔ منجانب اللہ۔ قدرتی فطرتی۔
 خدا واری چیر غم نہ داری (۱)۔ مثل (خدا پر بھروسہ ہونے کا نام ہے۔
 خدا دینا ہے تو چھپتے بھاڑ کر دیتا ہے۔) مثل (خدا جب دیتا ہے تو
 بے سبب بھی دے دیتا ہے۔
 خدا دے کھانے کو بلا جائے کمانے کو (۱)۔ مثل (مفت میں مل جائے
 تو کمانے کی کیا ضرورت ہے۔
 خدا را۔ خدا کے لیے۔ اللہ کے واسطے۔

خدا رسیدہ (۱)۔ اللہ تک پہنچا ہوا۔ اللہ والا (۲)۔ نیک پر سیر گزار۔ بزرگ
 خدا رکھے (۱)۔ دعا (کسی زندہ عزیز کا ذکر کرتے وقت یہ لفظ زبان پر
 لاتے ہیں کہ یعنی خدا سے زندہ رکھے۔
 خدا سازان۔ صفت (خدا کا بنایا ہوا۔
 خدا سب کی محنت سوارت کرتا ہے (۱)۔ مثل (اللہ نعلے ہر ایک
 کو اس کی محنت کا پھل دیتا ہے۔
 خدا سلامت رکھے (۱)۔ کلمہ دعا (خدا زندہ رکھے۔
 خدا سمجھے (۱)۔ کلمہ بد دعا (خدا سزا دے۔ خدا بدلہ دے۔
 خدا سے بچھڑنا (۱)۔ محاورہ (خدا کو نہ ماننا۔ کافر ہونا۔
 خدا سے خیر مانگو (کلمہ ہدا) بری بات کی پیش گوئی کی جائے تو اس وقت
 کہا جاتا ہے۔
 خدا سے ڈرو (کلمہ ندا) توبہ کرو۔ اللہ سے خون کھاؤ۔
 خدا سے کیا پاتا (۱)۔ محاورہ (بدی کا بدلہ ملنا۔
 خدا سے لڑنا (۱)۔ محاورہ (اللہ کی مرضی سے مقابلہ کرنا۔ ناشکری کرنا۔
 خدا سے لو لگانا (۱)۔ محاورہ (اللہ کی یاد کرنا۔ (۲)۔ مرنے کے قریب ہونا۔
 خدا شرتے برا نیگزیر کہ جسے مادراں باشند (۱)۔ مثل (بعض اوقات
 ایسے واقعات پیش آتے ہیں کہ بظاہر ہر وہ مضر ت رساں نظر آتے ہیں۔
 مگر ان میں بھلائی ہوتی ہے۔
 خدا شکر خورے کو شکر ہی دیتا ہے (۱)۔ مثل (خدا ہر شخص کو اس کے
 حوصلے کے مطابق دیتا ہے۔
 خدا شناس (۱)۔ صفت (خدا کو پہچاننے والا۔ عارف۔ نیک۔ پارسا۔
 خدا طلبی (۱)۔ مذہب (خدا کو چاہنا۔ خدا کی تلاش
 خدا ظالم سے پالا نہ ڈالے (۱)۔ کلمہ دعا (اللہ ظالم سے بچائے۔
 خدا کا دیا سہر (۱)۔ مثل (جو مصیبت اللہ کی طرف سے آئے اے مبر شکر سے
 برداشت کرنا چاہیے۔
 خدا کا نام لو (۱)۔ اللہ اللہ کرو (۲)۔ بیخ بولو۔ انصاف کرو۔
 خدا کا غضب (۱)۔ قہر (۱)۔ محاورہ (مصیبت پڑے۔ آفت نازل ہو۔
 خدا کا نام لے کر (۱)۔ روزمرہ (اللہ پر بھروسہ کر کے۔ اللہ کا نام لے کر۔
 خدا کسی کو کسی محتاج نہ کرے (۱)۔ محاورہ (خدا کسی سے کوئی کام نہ ڈالے۔
 خدا کو سونپنا (۱)۔ محاورہ (اللہ کے حوالے کرنا۔ کسی عزیز کے سفر جانے پر
 عورتیں کہتی ہیں
 خدا کو کیا جواب دو گے (۱)۔ مثل (۱)۔ خدا سے ڈرو۔ انصاف کرو۔
 خدا کو مان (۱)۔ محاورہ (اللہ سے ڈر۔ انصاف کرو۔
 خدا کی باتیں خدا ہی جلتے (۱)۔ مثل (خدا کے بھیدوں کی کسی کو خبر نہیں
 خدا کی حکمت خدا ہی کو معلوم ہے۔
 خدا کی جب نہیں چوری تو بندے کی کیا چوری (۱)۔ مثل (گناہ لوگوں
 کا مقولہ کہ جب گناہ کرتے وقت خدا کا خوف نہیں تو پھر بندوں سے کیوں
 رشتم کی جائے
 خدا کی حدائی میں کسے دخل (۱)۔ مقولہ (خدا کے کاموں میں کوئی دخل
 نہیں دے سکتا۔ وہ جو چاہے کرے۔

خدا کی دین ۱۱۔ مٹا ۱۱۔ اللہ کی بخشش۔ عطائے الہی
 خدا کی سنوار ۱۱۔ مجاور ۱۱۔ خدا کے عقل سے ۱۲۱۔ خدا سمجھے۔ خدا کی مار
 خدا کی لاکھی میں آواز نہیں ہوتی ۱۱۔ مثل اغیب کی سزا کہہ کر نہیں آتی
 خدا ناگمانی سزا دیتا ہے۔
 خدا کی مار (گھڑا بد عا ۱۱) اغیب کی سزا۔ خدا کا غضب ۲۱۔ خدا کی لعنت
 جب کسی سے تکلیف پہنچے تو عورتیں یہ کلمہ زبان پر لاتی ہیں۔
 خدا کے گھر سے پھرنا ۱۱۔ مجاورہ امرتے مرنے پچھنا۔ سخت جھلک بیماری
 سے نجات پانا۔

خدا کی خوار گدھے سوار ۱۱۔ مثل خراب فحشہ۔ آوارہ۔ سرگرداں
 خدا کی رات ۱۱۔ مٹا رت جگا کسی مراد کے پورا ہونے پر عورتیں
 رات بھر جاگتی ہیں اور نذر و نیاز کے لیے پکوان پکاتی ہیں۔
 خدا کی فوجدار ۱۱۔ مذہب رات میں ٹانگ اٹرانے والا آدمی اماند زبردستی
 لوگوں کی اصلاح کے درپے
 خدا کے مجازی رخ ۱۰۔ ۱۱۔ م۔ جا۔ نری (ف۔ ۱۱۔ مذ۔ ۱۱) بادشاہ
 وقت۔ حاکم وقت (۲) خاوند۔ شوہر
 خدائے (خد۔ ۱۱۔ ف۔ ۱۰۔ مذ۔ ۱۱) ڈر۔ خوف۔ اندیشہ۔ غلطہ۔
 خدشے میں ڈالنا ۱۱۔ محاورہ (خطبے میں پھینکانا۔

خدا کے کو تاخیر نہ دے ۱۱۔ مثل خدا کم حوصلہ اور لینے کو صاحب محتیا
 نہ کہے۔
 خدا گواہ ہے۔ سچ کہتا ہوں۔
 خدا لگتی کہنا۔ حق بات کہنا۔ طرفداری نہ کرنا۔ سچی بات کہنا۔
 خدا مارے یا چھوڑے۔ کچھ بھی ہو۔ ہر چہ بادا باد۔
 خدا مالک ہے ۱۱۔ مقولہ خدا پر بھروسے۔
 خدا مستعار۔ صف خدا کی محبت میں محو۔
 خدا محفوظ رکھے ہر بلا سے (دعا) خدا ہر مصیبت سے بچائے۔
 خدا معلوم۔ خدا جانے۔ بخلانے۔ نہیں معلوم۔ مجھے پتہ نہیں کسی معاملہ
 میں لاکھی کے موقع ہوتے ہیں

خدائے رخ۔ رخ (ع۔ مص) فریب کرنا دغا کرنا۔
 خدا کا فند کا (آر۔ ۱۰۔ مذ۔ ۱۱) دیکھیے خنکا۔
 خدا مہم رخ۔ دم (ع۔ ۱۰۔ مذ۔ ۱۱) خادم کی جمع۔ نوکر چاکر۔ ملازم۔
 خدا مات (غذ۔ مات (ع۔ ۱۰۔ مٹا) خدمت کی جمع۔ کار گزاریاں۔
 خدا مٹا (غذ۔ مٹا (ع۔ ۱۰۔ مٹا) نوکری۔ چاکری۔ ملازمت۔
 مثل سیوا ۲۱) سلانے۔ پاس۔ روبرو ۲) کام کاج۔ جمع خدمات
 خدمت سے عظمت ہے (مثل) محنت کے ساتھ کام کرنے سے کامیابی
 ہوا کرتی ہے۔ کار گزار سے مرتبہ ملتا ہے۔
 خدمت گار۔ خدمت کرنے والا۔ نوکر چاکر۔ شہلو۔ سیوک۔

خدا منہ نہ دکھائے و خدا صورت نہ دکھائے۔
 خدا مہربان تو جگ اکل مہربان (مثل) خدا کی عنایت ہر نوب
 خیر خواہ بن جلتے ہیں۔ بد صریب ادھر سب۔
 خدا نہ کر وہ۔ خدا نہ کیے کسی امر کے واقع نہ ہونے کی خواہش
 ظاہر کرنے کے لیے کہتے ہیں۔

خدا مٹی (غذ۔ م۔ ۱۱) (ف۔ ۱۰۔ مذ۔ ۱۱) خدمت گار۔ نوکر ۲۱ کارکن۔ کارپرداز۔
 (۳) خنک۔ پیشکش۔ نذرانہ۔ جو کسی بڑے آدمی کو دیا جائے۔
 خدا ننگ رخ۔ ننگ (ف۔ ۱۰۔ مذ۔ ۱۱) ایک قسم کا چھوٹا تیرا ۲۱ ایک
 مضبوط درخت کا نام جس کی لکڑی سے تیرا تے ہیں۔
 خدیجہ رخ۔ دی۔ جہ (ع۔ ۱۰۔ مٹا) ام المؤمنین۔ رسول مقبول کی پہلی بیوی
 خدیو رخ۔ دیو (ف۔ ۱۰۔ مذ۔ ۱۱) بادشاہ ۲۱) انیسویں صدی میں مصر
 کے بادشاہوں کا لقب۔ اردو میں بفتح اول مستعمل ہے۔

خدا واسطے بے سبب۔ برہمنی۔ ناحق۔ بلا وجہ۔ خواہ مخواہ
 خدا واسطے کا بیر ۱۱۔ (مذ۔ ناحق کی دشمنی۔ بے جا عداوت۔
 خدا ہی ہے (مقولہ) مشکل ہے شاید ہی ہو
 خدا یاد آنا ۱۱) سخت مصیبت میں گرفتار ہونا ۲۱) خدا کی قدرت نظر آنا
 خدا م (غذ۔ ذم) (ع۔ ۱۰۔ مذ۔ ۱۱) خادم کی جمع۔ خدمت کرنے والا۔
 نوکر۔ خدمت گار۔ نوکر چاکر

خداوند رخ۔ دا۔ وند (ف۔ ۱۰۔ مذ۔ ۱۱) مالک۔ آقا۔ صاحب (خدا اور
 وند سے مرکب ہے۔ وند نسبت اور تشبیہ کا ہے) اللہ تعالیٰ
 خداوند زاوہ (ف۔ ۱۰۔ مذ۔ ۱۱) مالک کا بیٹا۔ صاحب زاوہ۔ رئیس کا بیٹا۔
 خداوند گار (ف۔ ۱۰۔ مذ۔ ۱۱) مالک۔ آقا۔
 خداوند مجازی (ف۔ ۱۰) شوہر ۲۱) حاکم۔ بادشاہ

خ۔ ذ

خدا ماضی و ذمہ ماکدرا (مثل) جو صاف ہے۔ وہ لے لے۔ اور جو
 گدلا ہے وہ چھوڑ دے معقول بات اختیار کرو اور بڑی بات ترک کر دو

خداوند نعمت (ف۔ ۱۰۔ مذ۔ ۱۱) میر تمیں ۲۱) بڑے لوگوں کو بلانے کا ایک طریقہ
 خداوندی (ف۔ ۱۰۔ مٹا) ملکیت۔ بادشاہت۔ خدا کی طاقت بڑھانی
 خدا کا گال (خ۔ ۱۰۔ ر۔ گال) (ف۔ ۱۰۔ مذ۔ ۱۱) بڑا بادشاہ۔ بڑا آدمی۔
 خدا کی (خ۔ ۱۰۔ ذ۔ ۱۱) (ف۔ ۱۰۔ مٹا) (۱۱) خدا سے منسوب۔ خدا کا۔
 ۲۱) شان و عظمت خدا۔ ۳۱) دنیا۔ جہان۔
 خدا کی سنوار ۱۱) دنیا بھر میں ذلیل ۲۱) آوارہ۔ سرکش۔ ذلیل و سوا جنتہ خراب

خ۔ ر

خبر (ف۔ ۱۰۔ مذ۔ ۱۱) گدھا ۲۱) بے وقوف آدمی۔
 خبر بے دم (ف۔ ۱۰۔ صفت) بیوقوف آدمی۔ اجتن انسان۔
 خبر و جمال (ف۔ ۱۰۔ ع۔ ۱۰۔ مذ۔ ۱۱) و جمال کا گدھا۔ مشہور ہے کہ و جمال کے گدھے

خرابچ (خر. راج) [اُر. صفت] فضول خرچ (اغلا لعموم)
 خرچہ جنگ (خر. جنگ) [ن. ا. مذ] کیگڑا۔ سرطان
 خرچہ (خر. چہ) [ا. ر. ا. مذ] مقدمہ کا صرف۔ لاکھت۔ صرف۔
 خرچہ دلانا (ا. محاورہ) اذروئے انصاف مدعی یا مدعا علیہ کو اس کا صرف
 جو قاتلونا جائز ہے دلایا جانا۔
 خرمی (خر. چمی) [ا. ر. ا. مذ] فنان کی اہمت۔
 خرم خرم (ا. ر. ا. مذ) بلی کی آواز جو اکثر خود بخود نکلتی رہتی ہے
 خرخرانا (خر. خ. رانا) [ا. ر. موص] زور سے خترائے لینا۔
 خرخرشتہ (خر. خ. شتہ) [ن. ا. مذ] ہجکڑا، بکھیرا (۲) پریشانی۔
 خلبان (۳) فضول بحث۔
 خرد (ن. صفت) اچھوٹا کم عمر (۲) کم قدر۔ کم حیثت
 خرد بین (ا. آ. دہ) آگہ جو چھٹی تھیز کر بڑا دکھاتا ہے۔
 خرد سالی (ا. صفت) کم عمر۔ کم سن
 خرد سالی (ا. مٹ) کم عمری۔ کم سنی بچپن۔ روکین
 خردو (خ. نو) [ن. ا. مٹ] عقل۔ دانائی۔ سمجھ۔
 خرد مند (ن. صفت) عقل والا۔ دانا۔ سمجھ دار۔ جمع خرد مندان
 خرد مندی (ن. مٹ) (دانائی) غنیمندی۔ دانشمندی۔
 خرد واد (خر. واد) [ن. مٹ] ایڑیوں کا تیسرا شمسی مہینہ جو ہندی
 میں اساطیر سے ملتا ہے۔
 خرد دل (خر. دل) [ن. مٹ] رانی
 خردو (خر. وہ) [ن. مذ] (۱) ٹکڑا۔ ریڑھ۔ پارچہ (۲) (۱) جھڑن چھڑن
 (۳) (۱) ریز گاری (۲) (۱) لکنتہ۔ باریگی۔ غیب
 خردہ (ن. صفت) عجیب دیکھنے اور نکلنے والا
 خردہ بینی (ن. مٹ) عجیب جوئی۔ نکتہ چینی۔
 خردہ فروش (ن. صفت) بساطی۔ پرچون بیچنے والا
 خردہ فرستی۔ کھٹکل پینا۔
 خردہ کرنا (ا. محاورہ) روپیہ بھینا، روپیہ با پیسہ بٹولنا (۲) بیچنا۔ فروخت کرنا
 خردہ گیر (ن. صفت) نکتہ چیں۔ عجیب جو۔
 خردہ گیری (ن. مٹ) نکتہ چینی۔
 خردس (ن. ا. مذ) ریکھ بھالو۔
 خرد سندا (خر. سند) [ن. صفت] خوش۔ شادمان۔ شاد۔ آئند
 خرد سندی (ن. مٹ) خوشی۔ شادمانی۔
 خرد طوم (خر. طوم) [ن. مٹ] ہاتھی کی سوئڈ
 خردف (خ. رف) [ن. صفت] (۱) بوڑھا کھوسٹ۔ وہ بوڑھا جو
 بہرہ سال سے بجواس ہو گیا ہو۔ (۲) مہل۔ بے ہودہ۔
 خردفہ (خر. فہ) [ن. مذ] ایک بیج جو اکثر ٹھٹھائی میں ڈالتے ہیں
 سبز خردفہ ساگ پکاتے ہیں۔
 خردی (خ. مص) (۱) پھاٹنا۔ جھوٹ بولنا۔ جمع خردی۔
 خردی عادت (خ. مذ) (۱) عادت اور قانون قدرت کے خلاف اونگھی
 بات (۲) لکنا بیٹا اولی کی کرامت۔ نبی کا معجزہ۔

خرقہ (خ. ع. ا. مذ) (۱) پیوند لگا ہوا کپڑا۔ گدڑی۔ درویشوں کا لباس۔
 خرقہ پوش (خ. ع. ف. صفت) گدڑی پہننے والا۔ درویش۔ صوفی۔
 خرقرسنا (خ. ع. ف. ا. مذ) مکاری کا لباس۔ دھوکے کا بھیس۔
 خرگاہ۔ خرنکہ (خر. گاہ، خرنکہ) [ن. ا. مذ] بہت بڑا نیمہ۔ سلطین
 اور امراؤ کا نیمہ۔
 خرگوش (خر. گوش) [ن. ا. مذ] گدھے کے سے کان والا ایک تیز رفتا
 بلی کے برابر جانور
 خرم (خر. رم) [ن. صفت] (۱) خوش۔ شادمان۔ شاداب۔ سرسبز
 خرم (خر. ما) [ن. ا. مذ] (۱) کھجور۔ چھوٹا کھجور (۲) کھجور کی شکل کی
 ایک مٹھائی۔
 خرمین (خر. من) [ن. ا. مذ] (۱) کھلیان۔ انبار۔ غلے کا وہ ڈھیر جس
 سے بھوسا الگ نہ کیا گیا ہو (۲) چاند کا ٹالہ (۳) وہ روشنی جو آفتاب
 کے قریب دکھائی دیتی ہے۔
 خرمین ہستی (ن. ا. مذ) زندگی۔ حیات۔ زیست۔
 خرمہ (خر. مہ) [ن. ا. مذ] (۱) سنگھ۔ ناقوس (۲) گڑھی (۳) کھونگھا
 خرمی (خر. رمی) [ن. ا. مٹ] خوشی۔ شادمانی۔ فرحت۔ انبساط۔
 خردو (خ. رنج) [ن. ا. مذ] (۱) کھاس۔ برآمد۔ باہر نکلنا۔ (۲)
 شورش۔ بغاوت۔ فتنہ
 خردو کرنا (ا. محاورہ) بغاوت کرنا۔
 خردوس (خ. رُوس) [ن. ا. مذ] مرغا
 خردوس بے رنگام (ن. ا. صفت) بے وقت ہانگ دینے والا مرغ۔
 (۱) اجازت۔ بکواسی۔
 خردوش (خ. رُوش) [ن. ا. مذ] شور۔ غل۔
 خردوشال (خ. رورشان) [ن. ا. صفت] شوق پمانے والا۔ رقتا ہوا۔
 خرمی (خ. رمی) [ن. ا. مٹ] بے وقوفی۔ حماقت۔
 خرمیت (ن. ا. گدھا پن۔ حماقت۔
 خرمید (خ. رید) [ن. ا. مٹ] خریدی ہوئی۔ مولی ہوئی۔
 خرید لینا (ا. محاورہ) (۱) مول لینا (۲) اپنے ذمہ لینا۔
 خرید و فروخت (ن. مٹ) (۱) لین دین۔ بیع و مشرا۔
 خریدار (خ. رمی) [ن. صفت] (۱) مول لینے والا۔ گاہک (۲)
 قلب کار۔ خواہاں۔
 خریداری (خ. رمی) [ن. ا. مٹ] گاہکی۔ بکری
 خریدنا (خ. ریدنا) [ا. ر. موص] مول لینا۔ خرید کرنا۔
 خریطہ (خ. رمی) [ن. ا. مذ] بھیلی۔ کیسہ (۲) وہ بھیلی جس میں
 کمرکاری حکم جاتا ہے۔
 خریطی (خ. رمی) [ن. ا. مٹ] چھوٹی بھیلی (۲) تلے دانی۔
 خریفت (خ. رفیت) [ن. ا. مٹ] (۱) خزان (۲) ساقی۔ وہ فصل جس
 میں جواری کئی وغیرہ پیدا ہوتی ہے۔

خ۔ ز

خزاف ۱۰۔ مذ۔ رشیم۔ رشیم کا کچا سوت
 خزادہ۔ خوزادہ (خ۔ ز۔ دہ، خوز۔ زا۔ دہ) [ف۔ ۱۰۔ مذ] خواجہ زادہ
 کا محض (۱۱) صاحب زادہ (۱۲) سردار زادہ۔ سردار۔
 خزائن (خ۔ ز۔ ان) [ف۔ ۱۰۔ مذ] (۱۱) پت بھڑ۔ فصل خریف۔ وہ موسم
 جس میں پتے چھڑ کر پڑتے ہیں۔ (۱۲) ایسے رونق۔ زوال۔
 خزائن (۱۱)۔ محاورہ (۱۱) خزائن کا موسم آتا وہ (۱۲) بے رونق ہونا۔ زوال
 آنا۔ حسن نہ رہنا۔
 خزائن دیدہ (رسیدہ) بے رونق۔ پرانا۔ مایوس
 خزاچی (خ۔ ز۔ ان) [ف۔ ۱۰۔ مذ] خزانہ رکھنے والا۔ تجزیل دار۔
 خزانے کا نگراں
 خزانہ (خ۔ ز۔ ان) [ف۔ ۱۰۔ مذ] وہ جگہ جہاں خزانہ جمع رہے۔
 بنک (۱۲) ذخیرہ۔ گودام (۱۳) روپیہ۔ مال و دولت۔ نقدی۔
 خزان (خ۔ ز۔ ان) [ف۔ ۱۰۔ مذ] خزانہ کی جمع۔
 خزانہ عامہ (خ۔ ز۔ ان) [ف۔ ۱۰۔ مذ] بھرا ہوا خزانہ۔ شاہی خزانہ
 خزوف (خ۔ ز۔ ف) [ف۔ ۱۰۔ مذ] مٹھا ٹھکری
 خزوبہ (خ۔ ز۔ ی) [ف۔ ۱۰۔ مذ] خزانہ۔ مخزن۔

خسرو (خ۔ ز۔ و) [ف۔ ۱۰۔ مذ] بادشاہ۔ کنیت سورج
 خسروانہ (خ۔ ز۔ و) [ف۔ ۱۰۔ مذ] [ف۔ ۱۰۔ مذ] شامانہ۔ بادشاہی
 طریقے سے۔
 خسروی (خ۔ ز۔ و) [ف۔ ۱۰۔ مذ] بادشاہی۔ خسرو سے منسوب۔
 خسرو (خ۔ ز۔ و) [ف۔ ۱۰۔ مذ] گاؤں کے کھیتوں کی فہرست۔ جس میں
 ہر ٹبر کے مقابل کھیت کا رقبہ۔ کاشت کار کا نام۔ تقسیم زمین اور
 جتنس درج کی جاتی ہے (۱۲) بچوں کی ایک بیماری جس میں بدن پر
 دانے سے نکلے ہیں۔
 خسرو آبادی۔ گاؤں کے مکانات اور ان کے مالکوں کی فہرست۔
 خشک (خ۔ ز۔ ک) [ف۔ ۱۰۔ مذ] (۱) کوڑا کرکٹ۔ خش و خاشاک۔
 (۱۲) ایک خاردار جھاڑی (۱۳) گوکھرو۔ لوہے کے کانٹے جو دشمن کے
 راستے میں بھائے جاتے ہیں۔
 خسوف (خ۔ ز۔ ف) [ف۔ ۱۰۔ مذ] چاند گرہن۔
 خسی (۱۱)۔ مٹا (۱۲) وہ سیون جو اگلی کی ٹھوڑیوں کو اگلی کی آستینوں
 سے جوڑتی ہے۔
 خسرو (خ۔ ز۔ و) [ف۔ ۱۰۔ مذ] نقصان اٹھانے والا۔ دیوالیہ
 خسیس (خ۔ ز۔ س) [ف۔ ۱۰۔ مذ] [ف۔ ۱۰۔ مذ] بچیل۔ تجروس تنگ
 دل۔ خالقی۔

خ - س

خس (خ۔ ز۔ س) [ف۔ ۱۰۔ مذ] سوکھی گھاس۔ کوڑا کرکٹ۔ پھوس۔ خاشاک
 (۱۲) ایک خاص قسم کی خوشبودار گھاس کی جڑ جو گرمی کے موسم میں
 ٹیٹیاں بنانے کے کام آتی ہے۔ جنہیں دردازوں پر لگا کر پانی پھونک
 دیتے ہیں۔
 خس خانہ۔ خس کی ٹیٹوں سے گھرا ہوا مکان۔ خس کی ٹیٹوں سے بنا
 ہوا مکان۔
 خس کم جہاں پاک ان میں انالائقی شخص کے کہیں چلے جانے یا مرنے پر
 کہتے ہیں یعنی گھوڑا اٹھا تو صفائی ہو گئی۔
 خس کی ٹیٹ۔ خس کی جڑوں سے بنا ہوا پھیر یا پردہ۔
 خس و خاشاک (۱) کوڑا کرکٹ۔ خار و خس (۱۲) بڑا بھلا
 خسارہ (خ۔ ز۔ س) [ف۔ ۱۰۔ مذ] نقصان۔ گھاٹا۔ ٹوٹا۔ زیاں
 خسارہ اٹھانا۔ نقصان برداشت کرنا
 خساسبت (خ۔ ز۔ س) [ف۔ ۱۰۔ مذ] [ف۔ ۱۰۔ مذ] کینسرین۔ کیننگ (۱۲)
 کینٹی۔ کنبوسی۔
 خسارہ (خ۔ ز۔ س) [ف۔ ۱۰۔ مذ] پانی بھگو کر اور نتھار کر پینے کی دعا
 خست (خ۔ ز۔ س) [ف۔ ۱۰۔ مذ] [ف۔ ۱۰۔ مذ] خست (۱۱) کنبوسی۔ (۱۲) کبی (۱۳)
 خستکی (خ۔ ز۔ س) [ف۔ ۱۰۔ مذ] [ف۔ ۱۰۔ مذ] (۱۱) زخمی ہونا (۱۲) شکستہ۔ شکستہ
 حالی (۱۳) مفلس۔ ناداری۔ افلاس۔ تنگ دستی (۱۴) تھکن
 خستہ (خ۔ ز۔ س) [ف۔ ۱۰۔ مذ] [ف۔ ۱۰۔ مذ] (۱۱) زخمی۔ گھائل (۱۲) خراب۔ بد حالی
 (۱۳) مفلس۔ نادار۔ تنگ دست (۱۴) پھر پھر (۱۵) گرم (۱۶) ایک قسم کی
 گرمی جو بادام کی گرمی کے مشابہ ہوتی ہے۔

خ - ش

خسشت (خ۔ ز۔ ش) [ف۔ ۱۰۔ مذ] [ف۔ ۱۰۔ مذ] اینٹ
 خستت اندازی (باری) [ف۔ ۱۰۔ مذ] [ف۔ ۱۰۔ مذ] اینٹیں مارنا۔ روٹے اور
 پتھر پھینکنا۔
 خستت پزیران (مذ) اینٹیں پکانے والا۔
 خشک (خ۔ ز۔ ش) [ف۔ ۱۰۔ مذ] [ف۔ ۱۰۔ مذ] (۱) چھوٹی اینٹ۔ چوغللا۔ میانی۔
 پڑیا۔ سکھاٹ (۱۳) کھٹنے کی چینی
 خشکاش (۱) خشکاش (۱۲) خشکاش (۱۳) خشکاش (۱۴) خشکاش (۱۵) خشکاش
 کے دانے۔ تم اینٹوں (۱۲) چاول کا آٹھواں حصہ۔
 خشکاش کے دانے کے برابر (۱۱) مذ (بہت تھوڑا۔ بہت چھوٹا۔ کچھ
 نہیں بھی نہیں۔
 خشک (خ۔ ز۔ ش) [ف۔ ۱۰۔ مذ] [ف۔ ۱۰۔ مذ] (۱) سوکھا۔ بلا پانی (۱۲) روکھا۔ کج اخلاق۔

خضم کا کھا نہیں بھائی کا گالیوں ۱۱۔ مثل (فائدہ کسی سے اٹھانا اور تعریف کسی ادا کی کرنا۔
خضم کرنا ۱۱۔ محاورہ اخاذ کر لینا۔ اپنا یا ہ کر لینا۔
خضم کیا بڑا کیا، کمرے کے چھوڑ دیا اس سے بھی بڑا کیا ۱۱۔ مثل عجیب ہر ایک پر ہے۔ اس سے بچنا چاہیے۔
خضم ماز کرستی ہوئی (مثل) ادغا کرتے بعد میں ظاہری انوس کرنے کے موقع پر ملتے ہیں۔ عورتوں کے کھڑوب کے متعلق کہتے ہیں۔
خضموں جلی ۱۱۔ (صفت) وہ عورت جس نے خاندان کا ٹکڑھ نہ دیکھا ہو۔ مصیبت کی ماری۔ شوہر سے نالاں۔
خصوص ارج۔ خصوص (ارج۔ ۱۰۔ مذ) خاص کام۔ نرالا پن خصوصیت۔
خصوصاً ارج۔ خصوص۔ صفت (ارج) خاص کر۔ علی الخصوص۔
خصوصیت (ارج۔ صو۔ صی۔ بیت) (ارج۔ ۱۰۔ مٹ) خاص بات۔ خاص غریبی (۲) ذاتی تعلق۔ جمع خصائص خصوصیات۔
خصوم (ارج۔ مذ) خصم کی جمع۔ دشمن۔
خصومات (ارج۔ صو۔ مات) (ارج۔ ۱۰۔ مٹ) خصومت کی جمع (۱۱) دشمنیاں عداوتیں (۱۲) جھگڑے۔
خصومت (ارج۔ صو۔ مٹ) (ارج۔ ۱۰۔ مٹ) عداوت۔ دشمنی (۱۲) جھگڑا۔
خصمی (ارج۔ صی۔ خصی۔ صی) (ارج۔ صفت) وہ جانور جس کے فوطے نکال دیے گئے ہوں۔ آختہ (۲) انار۔ زرخیز۔ پیچھا۔ محنت (۳) وہ عورت جس کے پستان نہ ہوں۔ اور وہ میں بکشد بد صدار مستعمل ہے۔
خصی پر نالا (۱) مذ اور ہر نالا جو دیوار کے اندر ہو۔ بازاری عورت کی شرمگاہ۔
خصی کرنا۔ جانور کے فوطوں کو کچل دینا یا نکال دینا (۲) درخت کا چھانٹنا (۳) **خصیم** (ارج۔ ف) جھگڑا۔ لڑاکا (۲) حریف۔ دشمن۔
خصینہ اخص۔ بید (ارج۔ ۱۰۔ مذ) فوطہ۔ خایہ۔ بیضہ۔
خصینہ سردار (ارج۔ ف) صفت (خوشامدی۔ چابلوں۔
خصیہ سہلانا۔ خوشامد۔ کرنا۔ چابلوں کرنا۔

۱۳۱ روکھا۔ پھیکا۔ بے لطف۔ بے مزہ (۲) صرف۔ صحت (۵) بغیر بارش کے
 ۱۴۱ بے سحر۔ بے مغز (۶) تشنہ (۸) بلا سالن۔ بلا روٹی۔
خشک دماغ خشک مغز (ف) صفت (۱۱) بے مردت (۲) کوڑ مغز (۳) دیوانوں کی سی بلذت والا۔ یا گل۔ دیوانہ۔ مجنون۔ سوداوی۔
خشک سالی (۱) محظ۔ کال (۲) سوکھا۔ بارش کا نہ ہونا۔
خشک لب (ف) صفت (۱) پیاسا۔
خشک و تراف (صفت) بڑا بھلا۔ خوب ذرشت۔ مجازاً تمام دنیا خشک ہونا (۱) محاورہ (۱) سوکھنا۔ مر جھانا (۲) بغیر دودھ کے ہونا۔
دودھ سے بند ہو جانا (۳) بارش نہ ہونا۔ (۵) روکھا ہونا۔
خشک آتش (ک) (ف) (۱) مذ (۲) بھلے بٹے ہرے چاول۔ سوکھا آٹا جو روٹی بنانے میں پڑے کو کہتے ہیں۔ پختن۔
خشک کھاؤ (۱) محاورہ (۲) جب کوئی بٹے جا خواہش کرے تو کہتے ہیں خشک کھاؤ یعنی جاؤ رخصت ہو۔
خشک کھاؤ پیر کے ساتھ ۱۱۔ مثل (۱) اپنا راستہ لو۔ چلو ہٹو۔ (۲) خود کا و خود کھاؤ۔ بٹے محل بات کا جواب۔
خشکی آتش۔ کی (ف) (۱) مٹ (۲) سوکھا پن۔ نمی نہ ہونا (۲) بیوست (۳) روکھا پن (۴) کال محظ (۵) خشک زمین (۶) وہ میل کچیل جو بیوست سے سر نہیں پیدا ہو جاتا ہے (۷) صفت (خشک مزاج۔ روکھا۔
خشک (ف) (۱) مذ (۲) غصہ سرخلی۔ ناراضگی۔ غضب۔ طیش۔ غناہ
خشک اکوڑ (خشک ناک) (کین) (ف) مٹ (۱) خشکیں خشکناک۔ غصہ سے کھرا ہوا۔ غلب ناک
خشوع (ارج۔ شوع) (ارج۔ ۱۰۔ مذ) عاجزی۔ فروتنی۔ گڑ گڑانا۔
خشونت (ارج۔ شون۔ نت) (ارج۔ ۱۰۔ مٹ) (۱) سختی۔ درشتی۔ تلخی (۲) دشمنی۔ عداوت (۳) نفرت۔ کراہت۔ (۴) غصہ۔
خشیت (ارج۔ شنی۔ بیت) (ارج۔ ۱۰۔ مٹ) [ڈر۔ خوف۔

خ-ص

خصال (ارج۔ صال) (ارج۔ ۱۰۔ مٹ) اخصلت کی جمع۔ عاذیں۔
خصائص (ارج۔ صا۔ لھ) (ارج۔ ۱۰۔ مذ) اخصیت کی جمع۔ خاصیتیں۔ عادات۔
خصائل (ارج۔ صا۔ عل) (ارج۔ ۱۰۔ مذ) اخصلت کی جمع۔ خصلتیں۔ عادتیں۔
خصلت اخص۔ صت (ارج۔ ۱۰۔ مٹ) خور۔ عادت (۲) سیرت۔ مزاج (۳) تیز
خضم (ارج۔ ۱۰۔ مذ) (۱) دشمن۔ مخالف۔ بیروی۔ مانک۔ آقا (۲) آراؤ اور خاندان
خضم بلخی۔ خضم روئی خضم موئی ۱۱۔ مٹ (۱) لاندہ۔ بیوہ (۲) ایک قسم
 آبیہ کا کوٹا ہے کہ تو ایسے خاندان کا نام کرے۔
خضم جو روئی لڑائی کسی کو نہ بھائی (۱) مثل (۲) میان بیوی کی لڑائی سب
 کو ناپسند ہے۔
خضم سے چھوٹے تو یاروں کے جائے ۱۱۔ مثل (۱) بند چلن عورت کے متعلق کہا جاتا ہے۔

خ-ض

خضاب (ارج۔ ضاب) (ارج۔ ۱۰۔ مذ) (۱) کوئی تیل یا سفوف جو بالوں کو سیاہ کرے۔ سفید بالوں کو سیاہ کرنے کی دوا۔
خضاب (کرنا) لگانا (۱) محاورہ (۲) بال سیاہ کرنا۔ دسمہ لگانا۔
خضیر خضیر (ارج۔ ۱۰۔ مذ) (۱) درخت ایک پیچیر جن کی نسبت مشہور ہے کہ انہوں نے آب حیات پایا ہے اور وہ ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ (۲) رہنما۔ رہبر (۳) سبز ہونا۔
خضیرا (ارج۔ ۱۰۔ مذ) رہبر۔ رہنما۔
خضیر صورت (ارج۔ صفت) سفید اور دراز ریش۔
خضیر (۱) مقولہ رہنما مل گیا۔ مراد حاصل ہوئی۔ کام بن گیا۔
خضیر (ارج۔ ری) (ف) صفت (خضیر سے منسوب۔ بڑی عمر

مضمون (خ) مضموع (ع) ۱۰۔ مذ] عاجزی۔ گرو گڑانا۔
خضیب (ع)۔ ف] اخضاب شدہ۔ رنگین۔

خ - ط

خط (ع) ۱۔ مذ] ۱۱] نوشتہ۔ تحریر (۲) لکیر نشان ۱۳۱ نامہ۔ مکتوب (۲) نیا سبز جو مرد کے چہرہ پر آتا ہے ۱۵۱ تختہ کا لکھا۔ انداز تحریر۔ سواد
تحریر (۶) جماعت (۱۶) اصلاح (۸) لکیر لائن۔ جمع خطوط۔
خطِ آزادی (ع) ۱۰۔ ف۔ مذ] وہ نوشتہ جو غلام کو آزاد کرتے وقت لکھا
جاتے۔ آزادی کی سند۔

خطِ آنا (۱۱) محاورہ (۱۱) رخساروں پر داڑھی موچھوں کا نمودار ہونا (۲) چھٹی آنا۔

خطِ استوائ (۱۰) مذ] وہ فرضی لکیر جو زمین کے گرد قطبین کے درمیان
تسکیم کی جاتی ہے یہ خط مشرق سے مغرب تک فرض کیا گیا ہے جب
سورج اس خط پر آتا ہے تو دن رات برابر ہوتے ہیں۔

خطِ افق (۱۰) ع۔ ۱۰۔ مذ] ایک فرضی دائرہ جو قطبین میں سے گزرتا ہے
خطِ امان (ع) ۱۰۔ مذ] پرواز راہداری (۲) حفاظت کا حکم۔

خطِ بھر جانا (۱۱) محاورہ (۱) بد خط لکھنے۔ لگنا۔ تحریر کا بگڑنا۔

خطِ بنانا (۱۱) محاورہ (۱) جماعت بنانا۔ رخساروں کے بال مونڈنا (۲) خوشنظر
کی مشق کرنا۔ خط درست کرنا۔

خطِ بندی (۱۱) ف۔ مذ] غلامی کی تحریر۔

خطِ پرکار (ع) ۱۰۔ ف۔ ۱۰۔ مذ] وہ خط جو پرکار سے کھینچا جائے۔ دائرے کا
ایک حصہ۔ دائرہ۔

خطِ پشانی۔ خطِ جبین۔ خطِ سر نوشت (ع) ۱۰۔ ف۔ ۱۰۔ مذ] تقدیر۔
تقدیر کا لکھا۔ نوشتہ۔ تقدیر۔

خطِ تراش (ع) ۱۰۔ ف۔ ۱۰۔ مذ] اجماع نامی۔ مو تراش
خطِ تقدیر (ع) ۱۰۔ مذ] تقدیر کا نوشتہ۔ قسمت کا لکھا۔

خطِ تبریح (ع) ۱۰۔ مذ] تلوار کا زخم
خطِ جامِ اجماع (ع) ۱۰۔ مذ] جامِ جمید کے پیالے کی سات لکیریں۔

۱] خطِ جود (۲) خطِ بغداد (۳) خطِ بصرہ (۴) خطِ اَرزاق (۵) خطِ
اشک (۶) خطِ کاشغر (۷) خطِ فرودینہ

خطِ جدی (ع) ۱۰۔ ف۔ ۱۰۔ مذ] وہ خط جو خطِ استوا سے ۲۳ درجے جنوب
کی طرف واقع ہے۔ جب آفتاب اس پر پہنچتا ہے تو شمال کی طرف

دن چھوٹا رہتا ہے اور وہاں سردی زیادہ پڑنے لگتی ہے
خطِ علی (ع) ۱۰۔ ف۔ مذ] مونی تحریر۔ روشن تحریر۔ موٹے حروف

خطِ چلیبا۔ صلیب ناخط۔ جمع کے نشان جیسا +
خطِ حصار (ع) ۱۰۔ مذ] وہ دائرہ جو عامل لوگ اپنے گرد کھینچ لیتے ہیں

خطِ خوانا۔ وہ تحریر جو آسانی سے پڑھی جاسکے۔
خطِ خصی (ع) ۱۰۔ مذ] ہار یک تحریر۔

خطِ ریحان (گڑانا) (ع) ۱۰۔ ف۔ ۱۰۔ مذ] وہ علی خط جس کے موٹے حروف
میں نقش و نگار بنے ہوتے ہیں۔

خطِ سرطان۔ وہ خط جو خطِ استوا سے ۲۳ درجہ شمال کی طرف واقع
ہے۔ جب آفتاب ادھر جاتا ہے تو وہاں گرمی اور خطِ جدی کی طرف

سردی ہوجاتی ہے۔
خطِ سمرقہ (ع) ۱۰۔ ف۔ ۱۰۔ مذ] سمرقہ کی لکیر جو آنکھوں میں بن جاتی ہے۔

خطِ شعل (اشعاع) سورج کی لکیریں۔
خطِ شکستہ (ع) ۱۰۔ ف۔ ۱۰۔ مذ] ایک قسم کا خط جو نستعلیق کے برخلاف گھسیٹ
کر لکھا جاتا ہے اور جس کے حروف شکستہ ہوتے ہیں۔

خطِ عمود (خطِ عمودی) (ع) ۱۰۔ ف۔ ۱۰۔ مذ] وہ سیدھی لکیر جو دوسری سیدھی
لکیر کے ساتھ زاویہ قائمہ بنائے۔

خطِ غبار (ع) ۱۰۔ ف۔ ۱۰۔ مذ] نستعلیق تحریر کا ایک انداز جس میں علی حروف
کے درمیان باریک باریک نقطے لگاتے جاتے ہیں۔

خطِ کش (ف) ۱۰۔ ع۔ ۱۰۔ مذ] وہ لکیری یا پیمانہ جس سے لکیریں لگاتے ہیں۔
مسطر (۲) کتاب

خطِ کشیدہ (ع) ۱۰۔ ف۔ صفت (۱) وہ الفاظ جس کے اوپر یا نیچے لکیر کھینچی گئی ہو
خطِ کھینچنا (۱۱) محاورہ (۱) لکیر کھینچنا۔ قلمزد کرنا (۲) نشان کرنے کے لیے
ر لکیر کھینچنا۔

خطِ کئی پشانی (۱۱) مذ] وہ جگہ جو خط کے اوپر خالی چھوڑ دی جاتی ہے۔
خطِ متاثر (گرجک) (ع) ۱۰۔ ف۔ ۱۰۔ مذ] جنگ بندی کی حد۔

خطِ متوازی (ع) ۱۰۔ ف۔ ۱۰۔ مذ] وہ دو خط کر انہیں جہاں تک چاہیں سیدھا کھینچتے
جلے جائیں مگر وہ آپس میں نہ ملیں۔

خطِ محور (ع) ۱۰۔ ف۔ ۱۰۔ مذ] زمین کا وہ فرضی خط جو اس کے مرکز سے گزر کر محیط
کے دونوں طرف پہنچتا ہے اور زمین اس کے گرد چکر کاٹتی ہے۔

خطِ مستقیم (ع) ۱۰۔ ع۔ ۱۰۔ مذ] سیدھی لکیر۔ دو نقطوں کے درمیان چھوٹے سے
خطِ مویز (خط)۔

خطِ منحنی (ع) ۱۰۔ ف۔ ۱۰۔ مذ] ٹیڑھی لکیر۔
خطِ منحنی (منحنی) (ع) ۱۰۔ ف۔ ۱۰۔ مذ] وہ خط جس میں اہل بابل کے خط اور کتبے
لکھے جاتے تھے یہ ٹکڑے ٹکڑے لکھا جاتا تھا۔

خطِ نستعلیق (ع) ۱۰۔ ف۔ ۱۰۔ مذ] وہ ایرانی خط جو خطِ نسخ اور نستعلیق سے ملا کر نکالا گیا
جس میں حروف کے دائرے گول اور خوبصورت ہوتے ہیں۔

خطِ نسخ (ع) ۱۰۔ ف۔ ۱۰۔ مذ] ایک عربی خط کا نام۔
خطِ نصف النہار (ع) ۱۰۔ ف۔ ۱۰۔ مذ] ایک فرضی خط جو زمین پر سے گزر کر قطبین
کو ملتا ہے۔ خطِ استوا پر ان لکیروں کا درمیانی فاصلہ ۶۹ میل کا ہوتا ہے

خطِ ٹکنا (۱۱) محاورہ (۱) رخساروں پر سبزہ کا آغاز ہونا۔
خطِ و کتابت (ع) ۱۰۔ ف۔ ۱۰۔ مذ] مراسلت۔ چٹھیاں جو ایک دوسرے کو
لکھی جاتی ہیں۔

خطِ واخ (طا) (ع) ۱۰۔ ف۔ ۱۰۔ مذ] قصور۔ گناہ۔ جرم۔ تقصیر (۲) غلطی۔ سو
بھول۔ بچوک (۳) چین کا ایک شہر جو شمشک کے لیے مشہور ہے۔

خطِ وگراست (آید تا) ہم خطِ امت (ف) مقولہ ابے جاہکام کرنے سے

الگو کوئی فائدہ بھی ہوتا ہو تو نہیں کرنا چاہیے۔

خط کار۔ خطا گر۔ خطا وار (ع۔ ف۔ ص) قصور وار۔ تقصیر وار۔
گنہگار۔ مجرم۔

خطا کرے جو یہ پکڑی جاوے باندی (امثال) امیر قصور کرے
غریب کو سزا ہے۔

خطا وار (ع۔ ا۔ مذ) گنہگار۔ مجرم۔

خطا ہونا ۱۱۔ محاورہ ۱۱۱) بھول جانا۔ غلطی ہونا۔ قصور ہونا ۲۱) بے ارادہ
نکل جانا۔ جیسے پیشاب خطا ہونا۔ چوک جانا جیسے نشا نہ خطا ہونا
خطائے بزرگان گرفتار خطا است امثال) بزرگوں پر اعتراض کرنا
بڑی بے ادبی ہے۔

خطاب (ع۔ ط۔ اب) خطبہ (ع۔ ا۔ مذ) گفتگو۔ کلام۔ بات چیت (۲) کسی کی
طرف مخاطب ہونا (۳) سرکار یا بادشاہ کی طرف سے اعزازی نام۔ (۴)
تعریف کے طور پر اچھا نام (۵) طہنہ۔ اُجڑا نام۔ جمع خطابات۔

خطاب است (ع۔ ط۔ اب) خطبہ (ع۔ ا۔ مذ) خطبہ پڑھنا۔ وعظ کرنا۔ تقریر کرنا
تقریر۔

خطابی (ع۔ ط۔ اب) خطبہ (ع۔ ا۔ مذ) خطبہ پڑھنا۔ وعظ کرنا۔ تقریر کرنا

خطا ط (ع۔ ط۔ ط۔ ط) خطبہ (ع۔ ا۔ مذ) خطبہ پڑھنا۔ وعظ کرنا۔ تقریر کرنا

خطاطی (ع۔ ط۔ ط۔ ط) خطبہ (ع۔ ا۔ مذ) خطبہ پڑھنا۔ وعظ کرنا۔ تقریر کرنا

خطیب (ع۔ ط۔ ط۔ ط) خطبہ (ع۔ ا۔ مذ) خطبہ پڑھنا۔ وعظ کرنا۔ تقریر کرنا

خطیب (ع۔ ط۔ ط۔ ط) خطبہ (ع۔ ا۔ مذ) خطبہ پڑھنا۔ وعظ کرنا۔ تقریر کرنا

خطیب (ع۔ ط۔ ط۔ ط) خطبہ (ع۔ ا۔ مذ) خطبہ پڑھنا۔ وعظ کرنا۔ تقریر کرنا

خطیب (ع۔ ط۔ ط۔ ط) خطبہ (ع۔ ا۔ مذ) خطبہ پڑھنا۔ وعظ کرنا۔ تقریر کرنا

خطیب (ع۔ ط۔ ط۔ ط) خطبہ (ع۔ ا۔ مذ) خطبہ پڑھنا۔ وعظ کرنا۔ تقریر کرنا

خطیب (ع۔ ط۔ ط۔ ط) خطبہ (ع۔ ا۔ مذ) خطبہ پڑھنا۔ وعظ کرنا۔ تقریر کرنا

خطیب (ع۔ ط۔ ط۔ ط) خطبہ (ع۔ ا۔ مذ) خطبہ پڑھنا۔ وعظ کرنا۔ تقریر کرنا

خطیب (ع۔ ط۔ ط۔ ط) خطبہ (ع۔ ا۔ مذ) خطبہ پڑھنا۔ وعظ کرنا۔ تقریر کرنا

خطیب (ع۔ ط۔ ط۔ ط) خطبہ (ع۔ ا۔ مذ) خطبہ پڑھنا۔ وعظ کرنا۔ تقریر کرنا

خطیب (ع۔ ط۔ ط۔ ط) خطبہ (ع۔ ا۔ مذ) خطبہ پڑھنا۔ وعظ کرنا۔ تقریر کرنا

خطیب (ع۔ ط۔ ط۔ ط) خطبہ (ع۔ ا۔ مذ) خطبہ پڑھنا۔ وعظ کرنا۔ تقریر کرنا

خطیب (ع۔ ط۔ ط۔ ط) خطبہ (ع۔ ا۔ مذ) خطبہ پڑھنا۔ وعظ کرنا۔ تقریر کرنا

خطیب (ع۔ ط۔ ط۔ ط) خطبہ (ع۔ ا۔ مذ) خطبہ پڑھنا۔ وعظ کرنا۔ تقریر کرنا

لکچر دینے والا۔ مقرر۔

خطبر (ع۔ ط۔ ط۔ ط) خطبہ (ع۔ ا۔ مذ) خطبہ پڑھنا۔ وعظ کرنا۔ تقریر کرنا

خ۔ ف

خفت (ع۔ ص) اہلک۔

خفت (ع۔ ا۔ مذ) پاؤں کا تلوہ۔ جو تڑ۔ تھوڑہ۔ جراب

خفاز (ع۔ ف) [ع۔ ا۔ مذ] پو شیدگی۔ راز۔ پوشیدہ ہونا۔

خفا (ع۔ ف) [ع۔ ا۔ مذ] مڈوصف (۱) ناراض۔ ناخوش۔ برہم۔

خفاش (ع۔ ف) [ع۔ ا۔ مذ] جگادڑ۔

خفت (ع۔ ف) [ع۔ ا۔ مذ] پو شیدگی۔ راز۔ پوشیدہ ہونا۔

خفتان (ع۔ ف) [ع۔ ا۔ مذ] مڈوصف (۱) ناراض۔ ناخوش۔ برہم۔

خفت (ع۔ ف) [ع۔ ا۔ مذ] پو شیدگی۔ راز۔ پوشیدہ ہونا۔

خفت (ع۔ ف) [ع۔ ا۔ مذ] پو شیدگی۔ راز۔ پوشیدہ ہونا۔

خفت (ع۔ ف) [ع۔ ا۔ مذ] پو شیدگی۔ راز۔ پوشیدہ ہونا۔

خفت (ع۔ ف) [ع۔ ا۔ مذ] پو شیدگی۔ راز۔ پوشیدہ ہونا۔

خفت (ع۔ ف) [ع۔ ا۔ مذ] پو شیدگی۔ راز۔ پوشیدہ ہونا۔

خفت (ع۔ ف) [ع۔ ا۔ مذ] پو شیدگی۔ راز۔ پوشیدہ ہونا۔

خفت (ع۔ ف) [ع۔ ا۔ مذ] پو شیدگی۔ راز۔ پوشیدہ ہونا۔

خفت (ع۔ ف) [ع۔ ا۔ مذ] پو شیدگی۔ راز۔ پوشیدہ ہونا۔

خفت (ع۔ ف) [ع۔ ا۔ مذ] پو شیدگی۔ راز۔ پوشیدہ ہونا۔

خفت (ع۔ ف) [ع۔ ا۔ مذ] پو شیدگی۔ راز۔ پوشیدہ ہونا۔

خفت (ع۔ ف) [ع۔ ا۔ مذ] پو شیدگی۔ راز۔ پوشیدہ ہونا۔

خفت (ع۔ ف) [ع۔ ا۔ مذ] پو شیدگی۔ راز۔ پوشیدہ ہونا۔

خفت (ع۔ ف) [ع۔ ا۔ مذ] پو شیدگی۔ راز۔ پوشیدہ ہونا۔

خفت (ع۔ ف) [ع۔ ا۔ مذ] پو شیدگی۔ راز۔ پوشیدہ ہونا۔

خفت (ع۔ ف) [ع۔ ا۔ مذ] پو شیدگی۔ راز۔ پوشیدہ ہونا۔

خفت (ع۔ ف) [ع۔ ا۔ مذ] پو شیدگی۔ راز۔ پوشیدہ ہونا۔

خفت (ع۔ ف) [ع۔ ا۔ مذ] پو شیدگی۔ راز۔ پوشیدہ ہونا۔

خفت (ع۔ ف) [ع۔ ا۔ مذ] پو شیدگی۔ راز۔ پوشیدہ ہونا۔

خفت (ع۔ ف) [ع۔ ا۔ مذ] پو شیدگی۔ راز۔ پوشیدہ ہونا۔

خفت (ع۔ ف) [ع۔ ا۔ مذ] پو شیدگی۔ راز۔ پوشیدہ ہونا۔

خفت (ع۔ ف) [ع۔ ا۔ مذ] پو شیدگی۔ راز۔ پوشیدہ ہونا۔

خفت (ع۔ ف) [ع۔ ا۔ مذ] پو شیدگی۔ راز۔ پوشیدہ ہونا۔

خفت (ع۔ ف) [ع۔ ا۔ مذ] پو شیدگی۔ راز۔ پوشیدہ ہونا۔

خ - ل

خَلَا (خ. لا. ع. ا. ذ. ا. ۱۱) خالی جگہ (۲۱) زمین سے اور پر کا وہ خطہ جہاں زمین کی کشش ثقل کا اثر نہیں ہوتا (انگ) (Space Vacuum) (۲) خلوت (۳) پاخانہ -

خَلَا بَارِع (خ. ف. ص. ع. ا. ذ. ا. ۱۰) خلا میں سفر کرنے والا۔ ہوا کا وہ خطہ جہاں کشش ثقل اثر انداز نہیں ہوتی۔

خَلَا ص (خ. لا. س. ا. ع. ا. ذ. ا. ۱۰) رہائی۔ آزادی۔ چھٹکارا۔ خلاصی۔ نجات۔ خلاص کرنا (مص. مرکب) رہا کرنا۔ آزاد کرنا۔

خَلَا ص ہونا (خ. ا. ع. ا. ذ. ا. ۱۰) آزاد ہونا۔ ختم ہونا (۲۱) بچہ جنمنا (۳) انزال ہونا خلاصہ (خ. لا. ص. ا. ع. ا. ذ. ا. ۱۰) خلاصہ (۱۱) پاک صاف (۲۱) کسی چیز کا بہترین حصہ۔ تجرہ۔ جوہر۔ (۳۱) چیدہ۔ چٹا ہوا (۲۱) مختصر جمل (۱۵۱) [ذ. ا.] لب لباب۔ جمع۔ خلاصہ جات۔

خَلَا صہ کرنا (۱۱) محاورہ) واضح کرنا۔ صاف صاف کہنا۔ خلاصہ کلام (خ. ا. ع. ا. ذ. ا. ۱۰) مختصر بات۔ حاصل کلام۔

خَلَا صہ یہ ہے (۱۱) اصل مطلب یہ ہے۔ حاصل کلام یہ ہے۔ مختصر یہ ہے خلاصتی (خ. لا. صی. ا. ع. ا. ذ. ا. ۱۰) رہائی۔ آزادی۔ چھٹکارا۔ نجات۔

(۲۱) (۱۰) خیمہ استادہ کرنے والا ملازم (۳) توب خانہ یا جہاز کے کارندے۔ مزدور۔ قلی۔ جمع: ملا۔ خلاصیاں۔

خَلَا صی پانا (۱۱) محاورہ) چھٹکارا پانا۔ رہائی ہونا۔ نجات پانا

خِلَاف (خ. لا. ف. ا. ع. ا. ذ. ا. ۱۱) اٹل۔ مخالف۔ ناسازگار۔ ناموافق (۲) جھوٹ (۳) اختلاف (۴) مخالفت۔ دشمن۔

خِلَاف آئین (خ. ا. ع. ا. ذ. ا. ۱۰) صفت) ملک کے بنیادی قانون کی کسی دفعہ سے انحراف۔ آئین کے برعکس۔

خِلَاف سبکی (خ. ف. ا. ع. ا. ذ. ا. ۱۰) منہ جھوٹ۔ رد و گوی۔ غلط بیانی۔ دروغ خلقی خلافت دستور (خ. ف. ص. ع. ا. ذ. ا. ۱۰) رواج یا معمول کے برعکس۔

خِلَاف شریع (خ. ع. ص. ع. ا. ذ. ا. ۱۰) قانون محمدی کے خلاف۔ شریعت کے برعکس خلافت طبع (مزاج) (خ. ع. ص. ع. ا. ذ. ا. ۱۰) طبیعت کے خلاف۔ مزاج کے خلاف

خِلَاف عقل (خ. ع. ص. ع. ا. ذ. ا. ۱۰) صفت) خلاف قیاس۔ بعید از عقل۔ عقل کے خلاف خلافت قانون ہونا (۱۱) محاورہ) حکومت کی طرف سے کسی جماعت، گروہ یا کتاب کو ناجائز قرار دیا جانا۔

خِلَاف کہنا (۱۱) محاورہ) مخالفت کی بات کہنا (۲۱) طبیعت کے خلاف۔ خلافت وزری (خ. ف. ا. ع. ا. ذ. ا. ۱۰) منہ) برخلاف کام کرنا۔ ٹوڑنا۔ مخالفت۔

خِلَاف وضع (خ. ع. ص. ع. ا. ذ. ا. ۱۰) طریقے اور عادت کے برعکس۔ خلافت وضع نظری (خ. ع. ص. ع. ا. ذ. ا. ۱۰) غلام۔ بد فعلی۔ لوندے بازی۔

خِلَاف ہونا (۱۱) محاورہ) مخالفت کرنا۔ دشمن ہوجانا۔ خلافت (خ. لا. ف. ا. ع. ا. ذ. ا. ۱۰) منہ) نیابت اپنی یا بادشاہ کی۔

خِلَاف کا عہدہ (۳) اللہ والے کی جانشینی۔ خلافت راشدہ (خ. ا. ع. ا. ذ. ا. ۱۰) منہ) سچی خلافت (۲۱) رسول اللہ صلی اللہ

تعالے میں رسول کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر فاروقی حضرت عثمان غنی اور حضرت علیؓ کا دور حکومت۔ خلاق (خ. ل. ا. ع. ا. ذ. ا. ۱۰) صفت) بہت پیدا کرنے والا۔ مبالغہ کا مبالغہ (۲) اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام۔

خِلَال (خ. لا. ل. ا. ع. ا. ذ. ا. ۱۰) منہ) دو چیزوں کا درمیانی فاصلہ یا فرق (۲) ادانت کریدنے کا آلہ یا تسمکا۔ (۳) چھیننے یا تاش کی بانی میں دانت یا شکست۔

خِلَال کرنا (۱۱) محاورہ) (۱۱) دانت کریدنا (۲) مات یا شکست دینا۔ خِلَالِی (خ. لا. ق. ا. ع. ا. ذ. ا. ۱۰) منہ) خلق کی جمع۔ مخلوقات۔ آفرینش لوگ۔

خِلَالَت (خ. ل. ا. ع. ا. ذ. ا. ۱۰) منہ) بے حدودی۔ محبت (۲) اوست (۲) سبز خمیاک۔

خِلْمَانِ اَخْل (خ. ا. ع. ا. ذ. ا. ۱۰) منہ) (۱۱) نردو۔ نکر۔ اندیشہ (۲) جھین۔ خلت۔ خِلْمَانِی (خ. ل. خ. ا. ع. ا. ذ. ا. ۱۰) منہ) (۱۱) پارہ۔ پارہ۔ پامل۔

خِلْمَانِی (خ. ل. خ. ا. ع. ا. ذ. ا. ۱۰) منہ) (۱۱) پارہ۔ پارہ۔ پامل۔ خِلْمَانِی (خ. ل. خ. ا. ع. ا. ذ. ا. ۱۰) منہ) (۱۱) پارہ۔ پارہ۔ پامل۔

خِلْمَانِی (خ. ل. خ. ا. ع. ا. ذ. ا. ۱۰) منہ) (۱۱) پارہ۔ پارہ۔ پامل۔ خِلْمَانِی (خ. ل. خ. ا. ع. ا. ذ. ا. ۱۰) منہ) (۱۱) پارہ۔ پارہ۔ پامل۔

خِلْمَانِی (خ. ل. خ. ا. ع. ا. ذ. ا. ۱۰) منہ) (۱۱) پارہ۔ پارہ۔ پامل۔ خِلْمَانِی (خ. ل. خ. ا. ع. ا. ذ. ا. ۱۰) منہ) (۱۱) پارہ۔ پارہ۔ پامل۔

خِلْمَانِی (خ. ل. خ. ا. ع. ا. ذ. ا. ۱۰) منہ) (۱۱) پارہ۔ پارہ۔ پامل۔ خِلْمَانِی (خ. ل. خ. ا. ع. ا. ذ. ا. ۱۰) منہ) (۱۱) پارہ۔ پارہ۔ پامل۔

خِلْمَانِی (خ. ل. خ. ا. ع. ا. ذ. ا. ۱۰) منہ) (۱۱) پارہ۔ پارہ۔ پامل۔ خِلْمَانِی (خ. ل. خ. ا. ع. ا. ذ. ا. ۱۰) منہ) (۱۱) پارہ۔ پارہ۔ پامل۔

خِلْمَانِی (خ. ل. خ. ا. ع. ا. ذ. ا. ۱۰) منہ) (۱۱) پارہ۔ پارہ۔ پامل۔ خِلْمَانِی (خ. ل. خ. ا. ع. ا. ذ. ا. ۱۰) منہ) (۱۱) پارہ۔ پارہ۔ پامل۔

خِلْمَانِی (خ. ل. خ. ا. ع. ا. ذ. ا. ۱۰) منہ) (۱۱) پارہ۔ پارہ۔ پامل۔ خِلْمَانِی (خ. ل. خ. ا. ع. ا. ذ. ا. ۱۰) منہ) (۱۱) پارہ۔ پارہ۔ پامل۔

خِلْمَانِی (خ. ل. خ. ا. ع. ا. ذ. ا. ۱۰) منہ) (۱۱) پارہ۔ پارہ۔ پامل۔ خِلْمَانِی (خ. ل. خ. ا. ع. ا. ذ. ا. ۱۰) منہ) (۱۱) پارہ۔ پارہ۔ پامل۔

خِلْمَانِی (خ. ل. خ. ا. ع. ا. ذ. ا. ۱۰) منہ) (۱۱) پارہ۔ پارہ۔ پامل۔ خِلْمَانِی (خ. ل. خ. ا. ع. ا. ذ. ا. ۱۰) منہ) (۱۱) پارہ۔ پارہ۔ پامل۔

خِلْمَانِی (خ. ل. خ. ا. ع. ا. ذ. ا. ۱۰) منہ) (۱۱) پارہ۔ پارہ۔ پامل۔ خِلْمَانِی (خ. ل. خ. ا. ع. ا. ذ. ا. ۱۰) منہ) (۱۱) پارہ۔ پارہ۔ پامل۔

خِلْمَانِی (خ. ل. خ. ا. ع. ا. ذ. ا. ۱۰) منہ) (۱۱) پارہ۔ پارہ۔ پامل۔ خِلْمَانِی (خ. ل. خ. ا. ع. ا. ذ. ا. ۱۰) منہ) (۱۱) پارہ۔ پارہ۔ پامل۔

خِلْمَانِی (خ. ل. خ. ا. ع. ا. ذ. ا. ۱۰) منہ) (۱۱) پارہ۔ پارہ۔ پامل۔ خِلْمَانِی (خ. ل. خ. ا. ع. ا. ذ. ا. ۱۰) منہ) (۱۱) پارہ۔ پارہ۔ پامل۔

خِلْمَانِی (خ. ل. خ. ا. ع. ا. ذ. ا. ۱۰) منہ) (۱۱) پارہ۔ پارہ۔ پامل۔ خِلْمَانِی (خ. ل. خ. ا. ع. ا. ذ. ا. ۱۰) منہ) (۱۱) پارہ۔ پارہ۔ پامل۔

خِلْمَانِی (خ. ل. خ. ا. ع. ا. ذ. ا. ۱۰) منہ) (۱۱) پارہ۔ پارہ۔ پامل۔ خِلْمَانِی (خ. ل. خ. ا. ع. ا. ذ. ا. ۱۰) منہ) (۱۱) پارہ۔ پارہ۔ پامل۔

خلیقا (خ۔ ل۔ ی۔ ت) (ا۔ ا۔ ا۔ ا۔ نذ) اعربی خریدے کا بگڑا ہوا (۱۱) تھیلہ۔ تھیلی۔
 (۱۲) لمبا کرنا۔
 خلیتی (خ۔ ل۔ ی۔ ت) (ا۔ ا۔ ا۔ ا۔ نذ) اچھوٹی تھیلی۔ بھٹی۔ جس میں سوئی رکھا گیا ہے
 خلیج (خ۔ ل۔ ی۔ ج) (ا۔ ا۔ ا۔ ا۔ نذ) پانی کا وہ حصہ جو تین طرف خشکی سے
 گھرا ہوا اور ایک طرف سمندر سے ملا ہوا۔
 خلیج ایشیائی (خ۔ ل۔ ی۔ ج) (ا۔ ا۔ ا۔ ا۔ نذ) حصارہ (۱۱) کرخت ہونا۔ اختلاف پیدا ہونا۔
 خلیفہ کا (ف۔ ص۔ ف) اچھا ہوا۔ سوراخ دار۔
 خلیفہ بھائی (خ۔ ل۔ ی۔ ت) (ا۔ ا۔ ا۔ ا۔ نذ) خالہ جایا۔ خالہ زاد بھائی
 خلیفہ (خ۔ ل۔ ی۔ ت) (ا۔ ا۔ ا۔ ا۔ نذ) (۱) بیغیر صلہ کا قائم مقام بعد میں آنے والا
 قائم مقام۔ نبی کا جانشین۔ نائب (۲) (۱) مانیٹر (۲) (۱) [ا۔ ا۔ ا۔ نذ] درزی
 باورچی۔ (۲) استاد کا پیشہ۔
 خلیفۃ اللہ (خ۔ ل۔ ی۔ ت) (ا۔ ا۔ ا۔ ا۔ نذ) خدا کا نائب (۲) حضرت آدمؑ کا لقب
 خلیفۃ المسلمین (خ۔ ل۔ ی۔ ت) (ا۔ ا۔ ا۔ ا۔ نذ) مسلمانوں کا خلیفہ۔
 خلیق (خ۔ ل۔ ی۔ ق) (ا۔ ا۔ ا۔ ا۔ نذ) اچھے اخلاق والا۔ خوش خلق۔ اچھے
 سہارو والا۔
 خلیفہ (خ۔ ل۔ ی۔ ت) (ا۔ ا۔ ا۔ ا۔ نذ) پیدا کی ہوئی چیز۔ مخلوق۔
 خلیل (خ۔ ل۔ ی۔ ل) (ا۔ ا۔ ا۔ ا۔ نذ) سچا دوست۔ یار صادق (۲) حضرت
 ابراہیمؑ کا لقب۔
 خلیل اللہ (خ۔ ل۔ ی۔ ل) (ا۔ ا۔ ا۔ ا۔ نذ) خدا کا دوست (۲) حضرت ابراہیمؑ کا لقب۔
 خلیہ (خ۔ ل۔ ی۔ ی) (ا۔ ا۔ ا۔ ا۔ نذ) [جسم کا مختصر ترین خانہ۔ (انگ)
 (Cell)

خلفائے راشدین۔ ہدایت پانے والے خلیفے۔ رسول اللہ کے چار خلیفے
 حضرت ابوبکرؓ، حضرت عمرؓ، حضرت عثمانؓ اور حضرت علیؓ۔
 خلفشار (خ۔ ل۔ ی۔ ش) (ا۔ ا۔ ا۔ ا۔ نذ) گھڑ۔ کھل بلی۔
 خلق (خ۔ ل۔ ی۔ ق) (ا۔ ا۔ ا۔ ا۔ نذ) خلقت۔ دنیا کے لوگ۔ مخلوق آفرینش۔ جمع اخلاقی
 خلق کا خلق کس نے بن دیا ہے (۱) مثل لوگوں کی باتوں کو کوئی نہیں
 روک سکتا۔
 خلق (خ۔ ل۔ ی۔ ق) (ا۔ ا۔ ا۔ ا۔ نذ) خود۔ عادت۔ جصلت۔ جمع اخلاقی۔ خوش مزاجی
 خلق محمدی۔ حضرت محمدؐ کے سات صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے متعلق
 خلقت (خ۔ ل۔ ی۔ ق) (ا۔ ا۔ ا۔ ا۔ نذ) فطرت۔ پیدائش۔ سرشت۔ جنمیر
 خلقت (خ۔ ل۔ ی۔ ق) (ا۔ ا۔ ا۔ ا۔ نذ) مخلوق۔ لوگ۔
 خلقی (خ۔ ل۔ ی۔ ق) (ا۔ ا۔ ا۔ ا۔ نذ) صفت پیدا کنی۔ قدرتی۔ فطرتی۔
 خلل (خ۔ ل۔ ی۔ ل) (ا۔ ا۔ ا۔ ا۔ نذ) [۱] رخسہ۔ سوراخ۔ درز۔ دراز۔ [۲] خرابی۔
 بگاڑ۔ فتور۔ ضرر۔ نقصان۔
 خلل آنا (خ۔ ل۔ ی۔ ل) (ا۔ ا۔ ا۔ ا۔ نذ) محاورہ خرابی پیدا ہونا۔
 خلل انداز (خ۔ ل۔ ی۔ ل) (ا۔ ا۔ ا۔ ا۔ نذ) خلل ڈالنے والا۔ رخسہ انداز (۲) بے جا مداخلت
 کرنے والا۔ مزاحم۔
 خلل دماغ (خ۔ ل۔ ی۔ ل) (ا۔ ا۔ ا۔ ا۔ نذ) دماغ کی خرابی۔ سورا۔ مایوگلیا۔ دیوانگی
 خلوا (خ۔ ل۔ ی۔ و) (ا۔ ا۔ ا۔ ا۔ نذ) خالی ہونا (۲) خلا۔ جوف۔
 خلوتی (خ۔ ل۔ ی۔ ت) (ا۔ ا۔ ا۔ ا۔ نذ) پھیٹ کا خالی ہونا۔
 خلوت (خ۔ ل۔ ی۔ ت) (ا۔ ا۔ ا۔ ا۔ نذ) [منزلت] تنہائی۔ مجرگی۔ گوشہ نشینی (۲)
 خالی جگہ۔ تنہائی کی جگہ (۲) سونے کا گہرا خواب گاہ۔
 خلوت پسند (خ۔ ل۔ ی۔ ت) (ا۔ ا۔ ا۔ ا۔ نذ) تنہائی چاہنے والا۔ گوشہ نشین۔
 خلوت خانہ (خ۔ ل۔ ی۔ ت) (ا۔ ا۔ ا۔ ا۔ نذ) خلوت کدہ۔ خلوت سرا۔ خلوت گاہ (۲) [۱۔ نذ] تنہائی
 کی جگہ۔ منگدگی کا مقام۔

خلوت صحیحہ (ا۔ ا۔ ا۔ ا۔ نذ) اجیری خاندان کا ہم بستری کے لئے تنہا ہونا۔ جائز
 جنسی تعلقات۔
 خلوت گزیریں (خ۔ ل۔ ی۔ ت) (ا۔ ا۔ ا۔ ا۔ نذ) تنہائی میں بیٹھے والا۔
 اکیلا رہنے والا۔ گوشہ نشین۔
 خلوت و جلوت میں (خ۔ ل۔ ی۔ ت) (ا۔ ا۔ ا۔ ا۔ نذ) خفیہ یا اعلانیہ
 خلوت ہونا (ا۔ ا۔ ا۔ ا۔ نذ) اکیلا ہونا۔ تنہائی ہونا۔
 خلوتی (خ۔ ل۔ ی۔ ت) (ا۔ ا۔ ا۔ ا۔ نذ) (۱) اکیلا رہنے والا۔ تنہا۔ (۲) گوشہ نشین
 راہب (۳) راز دار۔ دوست۔ جمع خلوتیاں۔
 خلوی (خ۔ ل۔ ی۔ و) (ا۔ ا۔ ا۔ ا۔ نذ) ہمیشگی۔ دوام۔
 خلوص (خ۔ ل۔ ی۔ ص) (ا۔ ا۔ ا۔ ا۔ نذ) [۱] پاک صاف کونلہ (۲) اخلاص بے یابی سچی دوستی۔
 خلوص قلب (خ۔ ل۔ ی۔ ص) (ا۔ ا۔ ا۔ ا۔ نذ) سچے دل سے۔
 خلوص نیت (خ۔ ل۔ ی۔ ص) (ا۔ ا۔ ا۔ ا۔ نذ) نیک نیتی۔ خاص نیت۔
 خلیا ساس (خ۔ ل۔ ی۔ س) (ا۔ ا۔ ا۔ ا۔ نذ) [۱] ساس (۲) ساس کی ہن۔
 خلیا ساس رکھنا (خ۔ ل۔ ی۔ س) (ا۔ ا۔ ا۔ ا۔ نذ) کو دلوں کا بھات کھاتوں میں۔
 [مثل] خلیا ساس کوئی رشتہ نہیں۔ اور کو دلوں کا بھات کھاتوں میں۔
 ہے۔ دور کے رشتوں کے متعلق کہتے ہیں۔

خ۔ م۔

خم (خ۔ م۔ ی۔ م) (ا۔ ا۔ ا۔ ا۔ نذ) شیرخم۔ مچی۔ جھکاؤ۔ ترچھاپ (۲) بل بیج (۳) موڑ
 اعلیٰ۔ پھیر کھاؤ (۲) اوپر کا بازو۔
 خم ابرو (خ۔ م۔ ی۔ م) (ا۔ ا۔ ا۔ ا۔ نذ) مجھ کی مچی۔ یہ ایک قسم کی خوبصورتی ہے۔
 خم کھونک کر سامنے آتا (۱) محاورہ ایسے باک ہو کر مقابلہ کرنا۔
 خم کھونکنا (۱) محاورہ [کشتی کے وقت بازو یا پھوں پر اس طرح اٹھ
 مارنا کہ آواز نکلتے (۲) لڑنے کے لیے تیار ہو جانا۔
 خم چوگاں (خ۔ م۔ ی۔ م) (ا۔ ا۔ ا۔ ا۔ نذ) گڑھی جس سے چوگاں (بولو) کھیلتے ہیں۔
 خم دار (خ۔ م۔ ی۔ م) (ا۔ ا۔ ا۔ ا۔ نذ) صاف ڈھیلا۔ ترچھا۔ کج۔ جھکا ہوا۔
 خم روم (خ۔ م۔ ی۔ م) (ا۔ ا۔ ا۔ ا۔ نذ) ہمیت۔ جوش۔
 خم دینا (خ۔ م۔ ی۔ م) (ا۔ ا۔ ا۔ ا۔ نذ) ڈھیلا کرنا۔
 خم چم (خ۔ م۔ ی۔ م) (ا۔ ا۔ ا۔ ا۔ نذ) صاف حسین رفتار۔ خرام ناز۔ اترا ہدف۔ غرور
 خم (خ۔ م۔ ی۔ م) (ا۔ ا۔ ا۔ ا۔ نذ) [۱] شراب کا مٹکا یا پیپا۔ مٹکا (۲) گنچھ کے کھیل میں وہ پتے
 جو تقسیم سے پہلے چھاپتے ہیں۔ اور ایک ایک کر کے نکالتے ہیں
 (۳) خمیر (۴) بڑھی ہوئی ڈھلی۔
 خم اٹھنا (ا۔ ا۔ ا۔ ا۔ نذ) محاورہ [خمیر تیار ہونا۔
 خم پڑھنا (ا۔ ا۔ ا۔ ا۔ نذ) محاورہ [دھولے سے پہلے کپڑوں کو اٹھانا (۲) بہت ناز

پینا۔ مٹکا بھر پی جانا۔
 خم خمیازہ۔ خم کدہ۔ الف [مذاشراب خانہ، مے خانہ، خرابات۔
 خم اٹھینے الف۔ ا۔ مذا حضرت عیسیٰ کا ایک منہ۔ رگمڈار کپڑے ایک
 ٹھیلے میں ڈال دیتے تھے جو سفید یا سیاہ ہو جاتے تھے
 و خم کے خم اڑانا (خڑھانا۔ لندھھانا) (۱۔ محاورہ) بہت شراب پینا
 خم گردوں۔ آسمان۔
 خم گار (خ۔ مار) الف۔ ا۔ مذا [نشد۔ سرشاری، کیف (۲) نشہ اترنے
 کے قریب جو درد سہا ہوتا ہے اور ہاتھ پاؤں ٹوٹتے ہیں۔
 خمار الود، الودہ۔ متوالا۔ مست۔ مخمور۔
 خمیار شکنی الف۔ ف۔ مٹ [مخار توڑنا۔ نشہ اترنے کی تکلیف کو
 روکنے کے لیے پھر تھوڑی سی شراب پینا۔
 خمیار (خم۔ مار) الف۔ مٹ [خم سے فزوس۔ شراب بیچنے والا (۲)
 بہت شراب پینے والا۔

خمیرہ (خ۔ جی۔ دہ) الف۔ صف [جھکا ہوا۔ طیرھا۔
 خمیر (خ۔ میر) الف۔ ا۔ مذا [کڈھے ہوئے آٹے کو کچھ عرصت تک
 خمیر کرکھی میں رکھ کر یا کسی ترش چیز سے پھلا لینا۔ (۲) سرشت
 و نفوت۔ مزاج۔ طبیعت۔
 خمیر اٹھانا (۱۔ محاورہ) خمیر تیار کرنا۔ جوش میں لانا۔
 خمیر اٹھنا (۱۔ محاورہ) خمیر کا تیار ہونا۔
 خمیر بکڑنا (۱۔ محاورہ) سرشت میں فرق آنا۔ ترکیب میں فرق ہونا۔
 شامت آجانا۔
 خمیرہ (خ۔ جی۔ دہ) الف۔ صف [خمیر اٹھا کر تیار کیا ہوا (۲) مصری۔
 یا کھاڑ میں پکائی دوا (۳) ایک قسم کا خوشبودار پھلے کا تمباکو۔
 خمیر می (خ۔ جی۔ ری) الف۔ مٹ [دہ روئی مہو خمیر اٹھا کر پکائے ہیں
 خمیس (خ۔ میس) الف۔ مٹ [جمرات (۲) پانچواں۔ پانچواں دن۔

خ - ن

خماری (خ۔ ما۔ ری) الف۔ مٹ [خمار۔ نشہ
 خماسی (خ۔ ما۔ سی) الف۔ مٹ [پانچ حرفوں والی
 خم (ع۔ ا۔ مٹ) شراب
 خمرا (خ۔ را) الف۔ ا۔ مذا [ایک فرقے کا نام جو چٹائی بنا لے ہیں
 (۲) مسلمان فقیروں کا ایک فرقہ جو اکثر میلوں تماشوں میں مانگتا
 وہ پھرتا ہے (۳) مسلمان کبار۔ ایک چھوٹا سا پرندہ۔
 خمیرایت (ع۔ ا۔ مٹ) خمیر سے متعلق (۲) ایسے اشعار یا شاعری جس
 میں شراب اور اس کے لوازمات کا ذکر ہو۔

خمن (ق۔ ا۔ مذ) خموان
 خنتا (خن۔ نا) الف۔ مٹ [۱۱) فنس۔ بے ہودہ بات (۲) غرور۔ تکبر۔
 [الف۔ صف] [۱۱) بے وقوف آدمی۔ بد مزاج یا سحری عورت (۲)
 [الف۔ مذ] گاؤ۔ قصاب۔ بوڑھ۔ قصائی۔
 خنتا بھگنا (۱۔ محاورہ) ادماغ بکڑنا۔ اترنا۔ نیکو کرنا۔
 خنتا ش (خ۔ نا) الف۔ مٹ [خنتے کی جمع۔ ہیچرے۔
 خنتا زیز (خ۔ نا۔ زیز) الف۔ مٹ [۱۱) خنزیر کی جمع : سؤر (۲) ایک مرض
 جس سے گلے میں کلیں ہوجاتی ہیں۔ کنڈھ مالا۔
 خنتا س (خن۔ ناس) الف۔ صف [۱۱) شیطاں مرود۔ سرکش دیو۔
 دوسرو ڈالنے اور بھگانے والا۔ شریر۔
 خنتا ق (خ۔ ناق) الف۔ مٹ [۱۱) گلے کی ایک بیماری کا نام۔ کنڈھ روگ
 خنتی (خن۔ ٹی) الف۔ مٹ [۱۱) وہ شخص جس کی مردانہ یا زنانہ دونوں
 علامات ناقص ہوں۔ ہیچر۔ مخنت۔
 خنجر (خن۔ جز) الف۔ مٹ [۱۱) ایک ہتھیار جو چھرے کی قسم کا ہوتا
 ہے۔ گنار۔
 خنجر اٹھانا (۱۔ محاورہ) خنجر ہاتھ میں لینا
 خنجر کا نہنا (۱۔ محاورہ) خنجر کو سر سے لگانا۔
 خنجر کنگ (ف۔ ا۔ مذ) ایک سنگ چھوڑے کا نام جو اکثر پیٹھ پر ہوتا ہے۔
 خنجر پھیرنا (۱۔ محاورہ) خنجر جلانا۔ گلے پر خنجر رواں کرنا۔
 خنجر کھلے تنگ دم لیا تو پھر کیا (۱۔ مثل) مصیبتوں میں تھوڑا سا آرام ملا
 تو کوئی بڑی بات ہے۔

خمنس (ع۔ مٹ) پانچ۔ پنج۔
 خمنس (۱۱) پانچواں حصہ۔ پنج (۲) مال غنیمت کا پانچواں حصہ جو
 غریب اور لاوارثوں کے لیے وقف کیا جائے۔
 خمنسہ (خمن۔ سنہ) الف۔ صف [۱۱) پانچ سے نسبت رکھے والا (۲) وہ
 نظم جس میں ہر بند پانچ پانچ مصرعوں کا ہو۔
 خمنسہ متحیرہ (ع۔ ا۔ ن) پانچ سیارے یعنی مشتری۔ زحل۔ عطارد۔
 زہرہ اور مریخ جو کبھی سیدھی اور کبھی الٹی رفتار سے چلتے ہیں۔
 خموش (خ۔ موش) الف۔ صف [عاموش چپ
 خموشیاں (خ۔ موشاں) الف۔ صف [چپ لوگ، مردے۔
 خموشی (خ۔ موشی) الف۔ مٹ [چپ۔ خاموشی۔
 خمول (خ۔ مول) الف۔ مٹ [گنمای۔
 خمی (خ۔ جی) الف۔ مٹ [جھکاؤ۔ ٹیڑھیاں۔ کجی۔
 خمیازہ (خم۔ یازہ) الف۔ مٹ [۱۱) بدلہ۔ مکافات (۲) انگریزی بدلہ
 تینا (۳) شکم میں دسے کراغضار کو کھینچنا (۲) رخ۔ تکلیف (۵)
 پشیمان۔ سنوس
 خمیازہ اٹھانا۔ خمیازہ بھرنانا۔ خمیازہ بھگنا۔ خمیازہ کھینچنا (۱۔ محاورہ)
 (۱) بدلہ لینا۔ سزا بھگنا (۲) نقصان اٹھانا۔ تکلیف پانا۔ (۳)
 پشیمان ہونا۔ شرمندہ ہونا۔
 خمیازہ لینا (۱۔ محاورہ) انگریزی لینا۔

خمنس (ق۔ ا۔ مذ) خموان
 خنتا (خن۔ نا) الف۔ مٹ [۱۱) فنس۔ بے ہودہ بات (۲) غرور۔ تکبر۔
 [الف۔ صف] [۱۱) بے وقوف آدمی۔ بد مزاج یا سحری عورت (۲)
 [الف۔ مذ] گاؤ۔ قصاب۔ بوڑھ۔ قصائی۔
 خنتا بھگنا (۱۔ محاورہ) ادماغ بکڑنا۔ اترنا۔ نیکو کرنا۔
 خنتا ش (خ۔ نا) الف۔ مٹ [خنتے کی جمع۔ ہیچرے۔
 خنتا زیز (خ۔ نا۔ زیز) الف۔ مٹ [۱۱) خنزیر کی جمع : سؤر (۲) ایک مرض
 جس سے گلے میں کلیں ہوجاتی ہیں۔ کنڈھ مالا۔
 خنتا س (خن۔ ناس) الف۔ صف [۱۱) شیطاں مرود۔ سرکش دیو۔
 دوسرو ڈالنے اور بھگانے والا۔ شریر۔
 خنتا ق (خ۔ ناق) الف۔ مٹ [۱۱) گلے کی ایک بیماری کا نام۔ کنڈھ روگ
 خنتی (خن۔ ٹی) الف۔ مٹ [۱۱) وہ شخص جس کی مردانہ یا زنانہ دونوں
 علامات ناقص ہوں۔ ہیچر۔ مخنت۔
 خنجر (خن۔ جز) الف۔ مٹ [۱۱) ایک ہتھیار جو چھرے کی قسم کا ہوتا
 ہے۔ گنار۔
 خنجر اٹھانا (۱۔ محاورہ) خنجر ہاتھ میں لینا
 خنجر کا نہنا (۱۔ محاورہ) خنجر کو سر سے لگانا۔
 خنجر کنگ (ف۔ ا۔ مذ) ایک سنگ چھوڑے کا نام جو اکثر پیٹھ پر ہوتا ہے۔
 خنجر پھیرنا (۱۔ محاورہ) خنجر جلانا۔ گلے پر خنجر رواں کرنا۔
 خنجر کھلے تنگ دم لیا تو پھر کیا (۱۔ مثل) مصیبتوں میں تھوڑا سا آرام ملا
 تو کوئی بڑی بات ہے۔
 خنجر تیز کرنا (۱۔ محاورہ) قتل کے لیے تیار ہونا۔
 خنجر جلانا (۱۔ محاورہ) خنجر سے ذبح کرنا۔ خنجر کی لڑائی لڑنا۔
 خنجر کا پانی۔ خنجر کی آب یادگار۔
 خنجر (خن۔ ج۔ ری) الف۔ مٹ [۱۱) چھوٹی دف۔ ڈنکی (۲) [اُر]

مشروع یا گلبدن کی دھاریاں۔

خجور کھینچنا ۱۱۔ محاورہ اڑائی کے لیے تیار ہونا۔

خجندا (خجندا) ۱۱۔ خ۔ نا۔ نا۔ اڑ۔ مص اناک میں بولنا۔ منمنانا۔ غغفنانا۔

خندا (خجندا) ۱۱۔ صفت ۱۱۱ ہنستا ہوا ۱۱۱ شگفتہ۔ کھلا ہوا۔

خندق (خجندا) ۱۱۔ صفت ۱۱۱ ہنسی (۲) شوخ۔ ثمریر (ق)

خندہ آفتاب (خجندا) ۱۱۔ مذ آفتاب کا ہنسا۔ سورج کا نکلتا۔ طلوع آفتاب

خندہ برق (خجندا) ۱۱۔ مذ بجلی کی چمک۔

خندہ پیشانی (خجندا) ۱۱۔ صفت ۱۱۱ ہنس مکھ خوش مزاج۔ شگفتہ رو

خندہ ندرال نما (خجندا) ۱۱۔ صفت ۱۱۱ ایسی ہنسی جس میں دانت نظر آئیں۔

خندہ سوگندہ (خجندا) ۱۱۔ صفت ۱۱۱ جو ہر وقت ہنسنے وہ نیک چلن نہیں۔

خندہ صبح (خجندا) ۱۱۔ صفت ۱۱۱ طلوع صبح۔ صبح ہونا۔

خندہ گل (خجندا) ۱۱۔ صفت ۱۱۱ پھول کا کھلنا۔

خندہ مینا (خجندا) ۱۱۔ صفت ۱۱۱ آواز جو ہیشے سے شراب اندیلے وقت نکلتی ہے۔

خندہ روات (خجندا) ۱۱۔ صفت ۱۱۱ ہنس مکھ شگفتہ چہرہ۔ شگفتگی۔

خندہ زخم (خجندا) ۱۱۔ صفت ۱۱۱ زخم کا کھل جانا

خندہ زن (خجندا) ۱۱۔ صفت ۱۱۱ ہنسنے والا۔

خندہ زیر لبی (خجندا) ۱۱۔ صفت ۱۱۱ ہلکی سی مسکراہٹ۔ عجبم۔

خندی (خجندا) ۱۱۔ صفت ۱۱۱ عورت جو مردوں سے ہنسنے

۱۲۱۔ خندہ۔ ناخستہ۔ بے جیا۔

خندہ زرخیز (خجندا) ۱۱۔ صفت ۱۱۱ جنگلی سوند۔ جمع اختاریر

خندہ زرخیز (خجندا) ۱۱۔ صفت ۱۱۱ سب سے چھوٹی انگلی۔ چھنگلیا۔

خندہ زرخیز (خجندا) ۱۱۔ صفت ۱۱۱ ہنسنے والا۔ سرد

خندہ زرخیز (خجندا) ۱۱۔ صفت ۱۱۱ ہنسنے والا۔ سردی۔

خندہ زرخیز (خجندا) ۱۱۔ صفت ۱۱۱ سفید سبزہ۔ سفید گھوڑا۔ نقرہ گھوڑا۔ نزر گھوڑا

خندہ زرخیز (خجندا) ۱۱۔ صفت ۱۱۱ موٹا تازہ۔ ہٹا کٹا۔ ۱۲۱۔ صفت ۱۱۱ موٹا سوراخی

خندہ زرخیز (خجندا) ۱۱۔ صفت ۱۱۱ گانا۔ نغمہ۔ راگ۔ سرود (۲)

خندہ زرخیز (خجندا) ۱۱۔ صفت ۱۱۱ گویا۔ مطلب۔

خ. و

خو (خ) ۱۱۔ صفت ۱۱۱ عادت۔ خصلت۔ سو بھاد (۲) ڈھنگ (۲)

خو (خ) ۱۱۔ صفت ۱۱۱ رسم درواج۔ چلن۔

خو (خ) ۱۱۔ صفت ۱۱۱ عادت۔ خصلت۔ رنگ۔ ڈھنگ۔ طور طریق۔

خو (خ) ۱۱۔ صفت ۱۱۱ جو گر۔ خوگر۔ خوگر۔ عادی۔ جسے کسی

بات کی عادت پڑی ہو۔

خو (خ) ۱۱۔ محاورہ عادت پڑنا

خو (خ) ۱۱۔ محاورہ بد راہ ہونا۔ بسیار (مثل) کام کرنے کی نیت نہ ہو تو بدت

سے بہانے بنائے جاتے ہیں۔

خواب (خ) ۱۱۔ صفت ۱۱۱ مذ آہ بات جو انسان نیند میں دیکھے۔

خواب (خ) ۱۱۔ صفت ۱۱۱ نیند (۲) خیال۔ و ہم جمع: خوابا۔

خواب (خ) ۱۱۔ صفت ۱۱۱ نیند میں بھرا ہوا

خواب (خ) ۱۱۔ صفت ۱۱۱ نیند لانے والی (دوا) سلا نے والی۔

خواب (خ) ۱۱۔ صفت ۱۱۱ نیند لانے والی (دوا) سلا نے والی۔

خواب (خ) ۱۱۔ صفت ۱۱۱ نیند۔ غفلت کی گہری

خواب (خ) ۱۱۔ صفت ۱۱۱ نیند۔ غفلت۔

خواب (خ) ۱۱۔ صفت ۱۱۱ سوتے میں کسی بات کو دیکھنا۔ سہنا دیکھنا

خواب (خ) ۱۱۔ صفت ۱۱۱ سوتے میں کسی بات کو دیکھنا۔ سہنا دیکھنا

خواب (خ) ۱۱۔ صفت ۱۱۱ نیند۔ غفلت کی نیند (۲) گہری نیند

خواب (خ) ۱۱۔ صفت ۱۱۱ نیند۔ غفلت کی نیند (۲) گہری نیند

خواب (خ) ۱۱۔ صفت ۱۱۱ نیند۔ غفلت کی نیند (۲) گہری نیند

خواب (خ) ۱۱۔ صفت ۱۱۱ نیند۔ غفلت کی نیند (۲) گہری نیند

خواب (خ) ۱۱۔ صفت ۱۱۱ نیند۔ غفلت کی نیند (۲) گہری نیند

خواب (خ) ۱۱۔ صفت ۱۱۱ نیند۔ غفلت کی نیند (۲) گہری نیند

خواب (خ) ۱۱۔ صفت ۱۱۱ نیند۔ غفلت کی نیند (۲) گہری نیند

خواب (خ) ۱۱۔ صفت ۱۱۱ نیند۔ غفلت کی نیند (۲) گہری نیند

خواب (خ) ۱۱۔ صفت ۱۱۱ نیند۔ غفلت کی نیند (۲) گہری نیند

خواب (خ) ۱۱۔ صفت ۱۱۱ نیند۔ غفلت کی نیند (۲) گہری نیند

خواب (خ) ۱۱۔ صفت ۱۱۱ نیند۔ غفلت کی نیند (۲) گہری نیند

خواب (خ) ۱۱۔ صفت ۱۱۱ نیند۔ غفلت کی نیند (۲) گہری نیند

خواب (خ) ۱۱۔ صفت ۱۱۱ نیند۔ غفلت کی نیند (۲) گہری نیند

خواب (خ) ۱۱۔ صفت ۱۱۱ نیند۔ غفلت کی نیند (۲) گہری نیند

خواب (خ) ۱۱۔ صفت ۱۱۱ نیند۔ غفلت کی نیند (۲) گہری نیند

خواب (خ) ۱۱۔ صفت ۱۱۱ نیند۔ غفلت کی نیند (۲) گہری نیند

خواب (خ) ۱۱۔ صفت ۱۱۱ نیند۔ غفلت کی نیند (۲) گہری نیند

خواب (خ) ۱۱۔ صفت ۱۱۱ نیند۔ غفلت کی نیند (۲) گہری نیند

خواب (خ) ۱۱۔ صفت ۱۱۱ نیند۔ غفلت کی نیند (۲) گہری نیند

خواب (خ) ۱۱۔ صفت ۱۱۱ نیند۔ غفلت کی نیند (۲) گہری نیند

خواب (خ) ۱۱۔ صفت ۱۱۱ نیند۔ غفلت کی نیند (۲) گہری نیند

خواب (خ) ۱۱۔ صفت ۱۱۱ نیند۔ غفلت کی نیند (۲) گہری نیند

خواب (خ) ۱۱۔ صفت ۱۱۱ نیند۔ غفلت کی نیند (۲) گہری نیند

خواب (خ) ۱۱۔ صفت ۱۱۱ نیند۔ غفلت کی نیند (۲) گہری نیند

خواب (خ) ۱۱۔ صفت ۱۱۱ نیند۔ غفلت کی نیند (۲) گہری نیند

خواب (خ) ۱۱۔ صفت ۱۱۱ نیند۔ غفلت کی نیند (۲) گہری نیند

خواہی (خا۔ ری) [ف ۱۔ مٹ] ذلت۔ رسوائی۔ پریشانی۔ رضی
 خواہج (خ۔ و۔ ارج) [ع ۱۔ مذ] خارجی کی جمع۔ حضرت علی کے مخالفین
 خواہج (خ۔ و۔ ارج) [ع ۱۔ مذ] [خارج کی جمع] اخلاف عادت بائیں
 معجزے۔ کرامتیں۔
 خواہست (خا۔ ست) [ف ۱۔ مٹ] خواہش۔ چاہ (۲۱) التماس۔ التماس
 خواہست گار۔ طلب گار۔ [ف ۱۔ مٹ] امیدوار۔ سائل۔ مستغیث
 خواہست گاری [ف ۱۔ مٹ] [۱۱] درخواست۔ عرض۔ التماس۔ خواہش
 تمنا۔ طلب (۲۱) نسبت کی درخواست پیغام شادی۔
 خواہش (خ۔ و۔ اص) [ع ۱۔ مذ] [۱۱] خاص کی جمع۔ بڑے لوگ (۱۱) خاتین
 اثرات تاثیرات (۲۱) امتیاز نوکر۔ اعلیٰ درجہ کے خدمت گار (۲۱) صاحب
 (۱۵) [مٹ] لونڈی۔ کینز۔ ملازم (۶) سبیل۔ مصاحب عورت۔
 (۱۶) مدخورد۔
 خواہش و عام (ع ۱۔ مذ) خاص و عام کی جمع۔ ہر قسم کے لوگ۔ امراد
 عزیز۔ اعلیٰ و ادنیٰ۔
 خواہشی (خ۔ و۔ صی) [ع ۱۔ مٹ] [۱۱] خدمت گاری۔ ملازمت۔
 (۱۲) مصاحبت۔ ہم نشینی (۳۱) عمارت کی بیچلی نشست (۳۱) (۱۱)
 انگیا کا وہ جوڑ جو بغل کی طرف ہوتا ہے۔
 خواہشی میں بٹھنا (۱) محاورہ کسی بادشاہ یا امیر کے محلے سواری میں بیٹھنا
 خواہشی (خ۔ و۔ صی) [ع ۱۔ مٹ] [۱۱] خواہش کی جمع (۲) لونڈیاں۔
 خدمتگاریاں جو امیر عورتوں کے ہمراہ ہوتی ہیں (۲) سہیلیاں جو بھاری
 خوان (خان) [ف ۱۔ مذ] دستخوان۔ سفرہ (۲۱) سینی۔ کھانے لانے
 اور بے جانے والے برتن۔ مثال۔ طشت۔ طبقہ
 خوان بڑا۔ خوان پوش بڑا۔ کھول کے دیکھو تو آدھا بڑا
 خوان پاک۔ خوان پوش پاک کھول کے دیکھو تو خاک ہی خاک
 ایش ظاہری ٹیپ ٹاپ تو بہت اور اندر کچھ بھی نہیں۔
 ظاہر آراستہ باطن خراب۔
 خوان پوش (ف ۱۔ مذ) خوان ڈھکنے کا کپڑا۔
 خوانچہ (ف ۱۔ مذ) چھوٹا خوان یا سینی۔
 خوانچہ اٹھانا (۱) محاورہ اٹھال میں رکھ کر نہ جھپٹے پھرنا۔
 خوان خاص (ف ۱۔ مذ) بادشاہوں یا امیروں کے غلام
 خوانچہ فروش (ف ۱۔ مذ) وہ پھیری والا جو اٹھال میں چیزیں رکھ کر بیچے
 خوان کرم۔ خوان یغما (ف ۱۔ مذ) عام ننگ
 خوان نعمت (ف ۱۔ مذ) لذیذ قسم کے کھانوں کا خوان۔
 خواندگی (خان۔ و۔ گی) [ف ۱۔ مٹ] [۱۱] لکھنے پڑھنے کی قابلیت
 جردت شناسی (۲۱) پڑھائی۔
 خواندہ (خان۔ و۔ ہ) [ف ۱۔ مٹ] [۱۱] پڑھا لکھا۔ حرف شناس (۲۱)
 بلا با ہوا۔ مدعو۔ جمع۔ خواندگان۔
 خوانی (ف ۱۔ مٹ) پڑھنا۔ دوسرا نا۔ گانا۔ مرکبات کے آخر میں آتا
 جیسے مرثیہ خوانی۔ نعت خوانی۔ شعر خوانی۔
 خوانین (خ۔ و۔ بنین) [ف ۱۔ مذ] خان کی جمع۔ بڑے لوگ

خواہ (خا۔ ہ) [ف ۱۔ مٹ] کلمہ تردید (۱۱) یا چاہے۔ چاہو (۲) خواہش
 درخواست۔ چاہ۔
 خواہ مخواہ۔ خواہ مخواہ، خواہی۔ کخواہی (ف ۱) ناچار۔ زبردستی۔
 خواہاں (خا۔ ہاں) [ف ۱۔ مٹ] چاہنے والا۔ خواہشمند۔ طالب۔
 خواہر (خا۔ ہر) [ف ۱۔ مٹ] بہن۔ ہمشیر۔ جمع خواہراں۔
 خواہراں (خا۔ ہراں) [ف ۱۔ مٹ] بہن کی طرح۔
 خواہش (خا۔ ہش) [ف ۱۔ مٹ] [۱۱] آرزو۔ تمنا۔ ارمان (۲۱) رغبت
 شوق (۳) مرضی (۲) مطلب۔ مدعا۔ مراد۔ جمع خواہشات۔
 خواہش پوری ہونا (۱) محاورہ آرزو تمنا برآگیا۔ آرزو پوری ہونا۔
 خواہش مارنا (۱) محاورہ آتما کا ضبط کرنا۔
 خواہشمند (خا۔ ہش) [ف ۱۔ مٹ] آرزو مند۔ خواہاں۔ طالب۔ شائق۔
 خواہشات (خا۔ ہا۔ شات) [ف ۱۔ مٹ] خواہش کی جمع۔ آرزویں
 تمنا ہیں۔
 خوب (خا۔ ہ) [ف ۱۔ مٹ] عمدہ (۲) خوبصورت (۳) نفیس (۳)
 زیا۔ پسندیدہ (۱) ہر دو عزیز۔ مرغوب۔ (۶) ہاں اجواب میں کہا
 جاتا ہے (۶) عمدہ کلام کی تعریف کرنے ہوئے بھی کہتے ہیں (۸)
 طرز بھی کہا جاتا ہے۔
 خوب آؤ بھگت کرنا۔ (۱) محاورہ بڑی تعظیم تو وضع کرنا۔
 خوب تر (خا۔ ہ) [ف ۱۔ مٹ] زیادہ اچھا۔
 خوب کھوک بجا لو (۱) محاورہ اچھی طرح نسلی کر لو۔
 خوب رو۔ خوبصورت (ف ۱) [مٹ] حسین۔ شکیل۔ جمیل۔ مسند
 خوبصورتی (خا۔ ہر) [ف ۱۔ مٹ] [۱۱]
 خوب گزے کی جوہل بیچیں کے دلوانے (۲) [مٹ] [۱۱] جب دو
 ہم خیال مل جاتے ہیں تو وقت اچھا گزر جاتا ہے۔
 خوبیاں (خا۔ ہاں) [ف ۱۔ مٹ] [۱۱] خوب کی جمع۔ خوبصورت۔ حسین
 (۲) خوبصورت عورتیں۔
 خوبانی (خا۔ ہانی) [ف ۱۔ مٹ] [۱۱] زرد آلو۔ ایک میوہ (۲) خوب۔
 خوبصورت
 خوب کلاں (خا۔ کلاں) [ف ۱۔ مٹ] [۱۱] ایک قسم کی گھاس جس
 کا بیج دوا بیوں میں کام آتا ہے۔ خاکسی۔
 خوبی (خا۔ ہئی) [ف ۱۔ مٹ] [۱۱] عمدگی۔ خوبصورتی (۲) ہنر جوہر۔ گن
 (۳) بڑائی۔ شرف۔ تہنیت۔ فوقیت۔ جمع۔ خوشیہا۔
 خوبتر (خا۔ ہتر) [ف ۱۔ مٹ] [۱۱] بیچلہ مختلف۔ زنانہ۔ (۲۱) مسلمانوں کی
 ایک تجارت پیشہ قوم۔
 خوبخیاں (خا۔ ہیاں) [ف ۱۔ مٹ] [۱۱] بھکی دینا۔ چیننا۔ (۲۱) خفا ہونا
 بندہ یا رکھ کا چیننا۔
 خود (خا۔ ہ) [ف ۱۔ مٹ] [۱۱] لوہے کی ٹوٹی جوڑائی میں بنتے ہیں۔
 خود آمد (خا۔ ہ) [ف ۱۔ مٹ] [۱۱] اپنے آپ۔ بذات خاص۔ ذاتی۔
 خود آرا (خا۔ ہا) [ف ۱۔ مٹ] [۱۱] اپنے آپ کو سنوارنے والا۔ (۲۱) مغرور۔ متکبر۔
 خود آرائی (خا۔ ہا) [ف ۱۔ مٹ] [۱۱] اپنے آپ کو بنا سنوارنا۔ بناؤ سنگار۔ (۲) غرور۔ گھمنڈ

خود غلط، انشاء غلط۔ امل غلط۔ مثل جو ہر طرح سے غلط ہو

اس کے متعلق کہتے ہیں ششتم (ف) مثل ہم جو سمجھتے تھے خود غلط ہوو اچھے ماپنڈا ششتم (ف) مثل ہم جو سمجھتے تھے خود ایک غلطی تھی

خود کرا موش (ف)۔ صف ۱۱ اپنے آپ کو بھولنے والا۔ غافل۔ خود فروش (ف)۔ صف ۱۱ گھنڈی۔ یعنی مارنے والا۔ اپنی تعریف آپ کو بولا۔ خود کار (ف)۔ صف ۱۱ اپنے آپ کام کرنے والی مشین۔ آٹومیک (انگ) (Automatic)

خود کاشت (ف)۔ وہ زمین جسے مالک خود جوتے، بوئے۔ خود کام (ف)۔ صف ۱۱ خود غرض۔ مطلب درست۔ مطلبی۔ خود کردہ (ف)۔ صف ۱۱ اپنا کیا ہوا۔ اپنا کام۔ خود فیصل (ف)۔ صف ۱۱ اپنے مسائل پر گزارا کرنے والا۔ خود کوزہ، خود کوزہ گرد و خود گل کوزہ (ف)۔ مغولہ جہاں ایک آدمی تمام انتظامات کرے۔

خود کردہ را علاقے نسبت (ف)۔ مثل اپنے کیے کا کوئی علاج نہیں۔ خود کشی (ف)۔ ۱۰۔ مثل اپنے آپ کو ہلاک کرنے

خود مختار (ف)۔ صف ۱۱ آزاد۔ با اختیار۔ خود نما (ف)۔ صف ۱۱ اپنی نمائش کرنے والا۔ ۱۲۔ متکبر۔ شیخی خورہ۔ خود پسند۔

خود نمائی (ف)۔ ۱۰۔ مثل ۱۱ اپنی نمود و نمائش (۱۲) شیخی۔ خود پسندی۔ خودی (ع۔ دی) (ف)۔ ۱۰۔ مثل [اپنا آپ۔ انایت۔ غرور۔ تکبر۔ ۱۲] خود شناسی۔ معرفت نفس۔

خودی اور خدائی میں بیسے (ف)۔ مثل خدا غرور کو پسند نہیں کرتا۔ خودی میں نہ رہنا (۱۱) محاورہ [اپنے آپ میں نہ رہنا۔ خود خور (خ) (ف)۔ ۱۰۔ بند] (۱۱) خورشید کا مخف ہے۔ سورج (۲) گر گٹ (۱۳) مشرق۔ (۱۳) ہر قسمی ایرانی جیسے کا گیار ہواں دن۔

خورد (ف)۔ صف ۱۱ کھانے والا۔ مرکبات میں استعمال ہوتا ہے جیسے بیار غور۔ حلال خور۔

خورد و نوش (ف)۔ ۱۰۔ ہذا (۱۱) کھانا پینا۔ دانا پانی۔ خوراک (خ) (ف)۔ ۱۰۔ مثل (۱۱) کھانے کی چیز۔ کھانا۔ غذا۔

(۲) رسد۔ راشن۔ (۱۳) دوران کی وہ مقدار جو ایک وقت پی جلے ایک مرتبہ کا کھانا (۲) کھانے کے قابل چیز۔ خوراک (خ)۔ (کی)۔ (۱۰)۔ مثل (۱۱) کھانے کی چیز (۱۳) روزینہ۔

وظیفہ۔ بڑی خوراک والا۔ بہت کھانے والا۔ خور و برد (ف)۔ ۱۰۔ ہذا (۱۱) کھانا اٹانا۔ نمین۔ تغلب۔ خیانت۔ برباتی بے جا تصرف۔ رشوت۔

خور و برد کرنا (۱۱) محاورہ [کھانا اٹانا۔ نمین کرنا۔ کھانا باز تغلب کرنا خور دن بیلے رستین و ذکر کردن است (ف)۔ مثل کھانا زندہ تو متفقہ کر رستین از ہر خوردن است۔ رہنے اور عبادت سے کرنے کے لیے کھانا چاہیے۔ یہ درست نہیں کہ زندگی محض کھانے کیلئے

خود پسندی (ف)۔ مثل ارادہ۔ قصد (۲) حرص۔ لالچ۔ خود اختیار (ف)۔ ہذا آزاد جس کے ہاتھ میں اختیار ہو۔ خود اختیاری حکومت (ف)۔ ۱۰۔ مثل حکومت جس میں اختیار لوگوں کے ہاتھ میں ہو۔ جمہوری حکومت۔

خود ادریت (ف)۔ ۱۰۔ ۱۰۔ مثل عمل و ارادہ کی آزادی۔ اپنے معاملات خود سنبھالنا۔ (انگ) (Self-determinasim)

خود اعتمادی (ف)۔ ۱۰۔ ۱۰۔ مثل اپنی ذات پر بھروسہ خود بخود (۱۱) آپ ہی آپ۔ از خود۔ بے کے۔

خود بدولت (۱۱)۔ صف ۱۱ حضور۔ جناب۔ عالی جناب۔ خود ہیں (ف)۔ صف ۱۱ خود پرست۔ مغرور۔ گھمنڈی۔ متکبر۔ خود پسند خود بینی (ف)۔ ۱۰۔ مثل غرور۔ تکبر۔ فخر۔ گھمنڈ۔

خود پرست (ف)۔ صف ۱۱ مغرور۔ تکبر۔ خود پسند (ف)۔ صف ۱۱ اپنے آپ کو بہتر سمجھنے والا شخص۔ اپنی رائے کو ترجیح دینے والا۔

خود پسندی دلیل نادانی است (ف)۔ مثل اپنی ہر بات کو اچھا سمجھنا عقل مندی نہیں ہے۔

خود خواں (ف)۔ صف ۱۱ متلون مزاج۔ وہمی (۲) بد تمیز۔ خود دار (ف)۔ ۱۰۔ مثل رکھ رکھاؤ والا (۲) غیور۔ غیرت مند (۳) فانی۔ صاحب۔ خود داری (۱۱) رکھ رکھاؤ (۲) غیرت۔ عزت۔ نفس۔

خود را قضی سے دیگرال را لصیحت (۱۱)۔ مثل خود برے کام کرنا اور دوسروں کو نصیحت کرنا۔

خود رائی (ف)۔ ۱۰۔ مثل خود سری۔ سرکشی۔ اپنی مرضی کے مطابق کوئی کام کرنا۔

خود رائے (ف)۔ صف ۱۱ اپنی رائے پر چلنے والا۔ کسی کی نہ ماننے والا۔ خود سر۔

خود رفتگی (ف)۔ ۱۰۔ مثل ایچودی۔ مدہوشی۔ بے خبری۔ خود رفتہ (ف)۔ صف ۱۱ بے خبر بے خود۔ جسے اپنے آپ کی خبر نہ ہو۔

خود رنگ (ف)۔ صف ۱۱ طبعی رنگ والا۔ جس میں قدرتی رنگ ہو۔ خود رواں (ف)۔ صف ۱۱ بے بوئے اگا ہوا۔ اپنے آپ اگا ہوا۔ جنگلی (۲) ہے قاعدہ۔ بد تمیز۔

خود ساختہ (ف)۔ صف ۱۱ اپنا بنایا ہوا۔ اپنا گھر ہوا۔ خود ستا (ف)۔ صف ۱۱ اپنی تعریف آپ کرنے والا۔ اپنے منہ میاں مٹھو لینے والا۔

خود ستائی (ف)۔ ۱۰۔ مثل اپنی تعریف کرنا۔ اپنے منہ میاں مٹھو لینا۔ خود سر (ف)۔ صف ۱۱ خود رائے۔ سرکشی۔ ضدی۔ بھٹلا۔

خود کمری (ف)۔ ۱۰۔ مثل خود رائی۔ سرکشی۔ نافرمانی۔ (۲) ضد بہت خود سے۔ اپنے آپ۔ از خود۔ خود بخود۔

خود غرض (ف)۔ ۱۰۔ صف ۱۱ اپنی غرض کا آشنا۔ مطلبی۔ خود کام۔ مطلب پرست۔ مطلبی۔

خود غرضی (ف)۔ ۱۰۔ مثل خود کامی۔ مطلب پرستی۔ اپنا دھابی نفسا

خوردنی (خوردنی) [ف. صفت] کھانے کے قابل کھانے کی چیز
 خوردہ (خوردہ) [ن. صفت] کھا یا پوا۔
 خوردہ نہ بردہ ناحق درود گردہ (مثل) کچھ کیا نہیں مفت کی تکلیف
 ہوتی ہے کیے دھرے جانے کی مصیبت۔

خوردن (خوردن) [ف. ۱۰۔ مٹ] کھانا۔ طعام۔ خوراک۔
 خوردن (خوردن) [ن. ۱۰۔ مذ] سوج۔ آفتاب۔
 خوردن (خوردن) [ن. ۱۰۔ مذ] کھانا پورا سوج۔ کھانا پورے کے قریب
 خوردن (خوردن) [ن. ۱۰۔ مذ] چہرہ۔ رخ [ف. صفت] حسین و
 جمیل معشوق۔

خوردن (خوردن) [ن. ۱۰۔ مذ] [ف. صفت] کھانے والا۔
 خوردن (خوردن) [ف. صفت] [۱۱] مسود۔ شاداں۔ شاداں خوردن
 خرم (۱۱) [۱۱] چنگا بھلا۔ تندرسنت۔ راضی [۱۰] ہنر تازہ۔ شاداب
 سرسبز (۱۱) مقصدور۔ بامراد (۱۱) اچھا۔ عمدہ۔
 خوردن (خوردن) [ف. صفت] آب دار۔ شفاف۔ چمکدار۔ رس دار
 پر فر۔ نازہ۔

خوردن (خوردن) [ن. ۱۰۔ مٹ] آپ اچھے آئے۔ استقبالیہ الفاظ
 خوردن (خوردن) [ن. ۱۱۔ محاورہ] اچھا لگنا۔ پسند آنا۔ مغرب ہونا۔
 خوردن (خوردن) [ن. ۱۰۔ مٹ] اچھی آواز والا۔
 خوردن (خوردن) [ف. صفت] اچھا معلوم ہونے والا خوشگوار خوردن کن
 خوردن (خوردن) [ف. صفت] پسندیدہ طور طریقوں والا [۱۲] خوردن آواز۔

خوردن (خوردن) [ن. ۱۰۔ مٹ] اچھی آواز والا۔
 خوردن (خوردن) [ن. ۱۰۔ مٹ] اچھی آواز والا۔
 خوردن (خوردن) [ن. ۱۰۔ مٹ] اچھی آواز والا۔
 خوردن (خوردن) [ن. ۱۰۔ مٹ] اچھی آواز والا۔

خوردن (خوردن) [ن. ۱۰۔ مٹ] اچھی آواز والا۔
 خوردن (خوردن) [ن. ۱۰۔ مٹ] اچھی آواز والا۔
 خوردن (خوردن) [ن. ۱۰۔ مٹ] اچھی آواز والا۔
 خوردن (خوردن) [ن. ۱۰۔ مٹ] اچھی آواز والا۔

خوردن (خوردن) [ن. ۱۰۔ مٹ] اچھی آواز والا۔
 خوردن (خوردن) [ن. ۱۰۔ مٹ] اچھی آواز والا۔
 خوردن (خوردن) [ن. ۱۰۔ مٹ] اچھی آواز والا۔
 خوردن (خوردن) [ن. ۱۰۔ مٹ] اچھی آواز والا۔

خوردن (خوردن) [ن. ۱۰۔ مٹ] اچھی آواز والا۔
 خوردن (خوردن) [ن. ۱۰۔ مٹ] اچھی آواز والا۔
 خوردن (خوردن) [ن. ۱۰۔ مٹ] اچھی آواز والا۔
 خوردن (خوردن) [ن. ۱۰۔ مٹ] اچھی آواز والا۔

خوردن (خوردن) [ن. ۱۰۔ مٹ] اچھی آواز والا۔
 خوردن (خوردن) [ن. ۱۰۔ مٹ] اچھی آواز والا۔
 خوردن (خوردن) [ن. ۱۰۔ مٹ] اچھی آواز والا۔
 خوردن (خوردن) [ن. ۱۰۔ مٹ] اچھی آواز والا۔

خوردن (خوردن) [ن. ۱۰۔ مٹ] اچھی آواز والا۔
 خوردن (خوردن) [ن. ۱۰۔ مٹ] اچھی آواز والا۔
 خوردن (خوردن) [ن. ۱۰۔ مٹ] اچھی آواز والا۔
 خوردن (خوردن) [ن. ۱۰۔ مٹ] اچھی آواز والا۔

خوردن (خوردن) [ن. ۱۰۔ مٹ] اچھی آواز والا۔
 خوردن (خوردن) [ن. ۱۰۔ مٹ] اچھی آواز والا۔
 خوردن (خوردن) [ن. ۱۰۔ مٹ] اچھی آواز والا۔
 خوردن (خوردن) [ن. ۱۰۔ مٹ] اچھی آواز والا۔

خوردن (خوردن) [ن. ۱۰۔ مٹ] اچھی آواز والا۔
 خوردن (خوردن) [ن. ۱۰۔ مٹ] اچھی آواز والا۔
 خوردن (خوردن) [ن. ۱۰۔ مٹ] اچھی آواز والا۔
 خوردن (خوردن) [ن. ۱۰۔ مٹ] اچھی آواز والا۔

خوردن (خوردن) [ن. ۱۰۔ مٹ] اچھی آواز والا۔
 خوردن (خوردن) [ن. ۱۰۔ مٹ] اچھی آواز والا۔
 خوردن (خوردن) [ن. ۱۰۔ مٹ] اچھی آواز والا۔
 خوردن (خوردن) [ن. ۱۰۔ مٹ] اچھی آواز والا۔

خوردن (خوردن) [ن. ۱۰۔ مٹ] اچھی آواز والا۔
 خوردن (خوردن) [ن. ۱۰۔ مٹ] اچھی آواز والا۔
 خوردن (خوردن) [ن. ۱۰۔ مٹ] اچھی آواز والا۔
 خوردن (خوردن) [ن. ۱۰۔ مٹ] اچھی آواز والا۔

خوردن (خوردن) [ن. ۱۰۔ مٹ] اچھی آواز والا۔
 خوردن (خوردن) [ن. ۱۰۔ مٹ] اچھی آواز والا۔
 خوردن (خوردن) [ن. ۱۰۔ مٹ] اچھی آواز والا۔
 خوردن (خوردن) [ن. ۱۰۔ مٹ] اچھی آواز والا۔

خوردن (خوردن) [ن. ۱۰۔ مٹ] اچھی آواز والا۔
 خوردن (خوردن) [ن. ۱۰۔ مٹ] اچھی آواز والا۔
 خوردن (خوردن) [ن. ۱۰۔ مٹ] اچھی آواز والا۔
 خوردن (خوردن) [ن. ۱۰۔ مٹ] اچھی آواز والا۔

خوردن (خوردن) [ن. ۱۰۔ مٹ] اچھی آواز والا۔
 خوردن (خوردن) [ن. ۱۰۔ مٹ] اچھی آواز والا۔
 خوردن (خوردن) [ن. ۱۰۔ مٹ] اچھی آواز والا۔
 خوردن (خوردن) [ن. ۱۰۔ مٹ] اچھی آواز والا۔

خوردن (خوردن) [ن. ۱۰۔ مٹ] اچھی آواز والا۔
 خوردن (خوردن) [ن. ۱۰۔ مٹ] اچھی آواز والا۔
 خوردن (خوردن) [ن. ۱۰۔ مٹ] اچھی آواز والا۔
 خوردن (خوردن) [ن. ۱۰۔ مٹ] اچھی آواز والا۔

خون آنکھوں میں اترنا (۱) - معادہ اخصے کے مارے آنکھوں کا سرخ ہوجانا۔ کسی کو دیکھ کر غضبناک ہوجانا۔
 خون اچھلنا (۱) - معادہ قتل کی شہرت ہونا۔
 خون انتہال (۱) - صفت خون پھڑکنے والا۔ خون بہانے والا۔
 خون ہار (۱) - صفت خون برسانے والا۔
 خون باری (۱) - مٹا آنکھوں سے خون کے آنسو بہانا۔
 خون بدن میں نہ ہونا (۱) - معادہ خون بہت گھٹ جانا۔ بہت کمزور ہونا۔ بہت ڈر جانا۔
 خون بکڑنا (۱) - معادہ خون کا خراب ہوجانا۔ کوڑھ یا جذام ہوجانا
 خون بہا (۱) - صفت خون کی قیمت۔ وہ نقدی جو مقتول کے وارث بعض خون لیں۔ دیت۔
 خون بہانا (۱) - معادہ خون کرنا۔ (۲) کشت و خون کرنا۔ قتل کرنا۔ خون نکالنا۔
 خون پانی ایک کرنا (۱) - معادہ بہت سخت مشقت کرنا۔
 خون پانی ہونا (۱) - معادہ بے حد تکلیف پہنچنا
 خون پینا (۱) - معادہ (۱) خون چوسنا۔ (۲) مارنا۔ قتل کرنا (کنایتاً) ستانا۔ دق کرنا۔
 خون ٹھوکانا (۱) - معادہ کسی صدمے یا مرض سے لہو کی نئے کرنا بہت صدمہ برداشت کرنا۔ تپ دق کا آخری درجہ۔
 خون حکم پینا (۱) - معادہ (۱) عم و غصہ ضبط کرنا (۲) سخت مصیبت اٹھانا
 خون جو نقش کھانا (۱) - معادہ نہایت غصے میں آنا۔ بہت بے فروغ ہونا
 خون چھٹا (۱) - معادہ تلوار کا خون اُتو کرنا۔
 خون چکاں (۱) - صفت جس سے خون ٹپکتا ہو۔ خون ٹپکتا ہو۔
 خون خرابا (۱) - مڈا کشت و خون۔ خون ریزی۔ خون نچر
 خون خشک ہونا (۱) - معادہ آدم خشک ہونا۔ خوف چھانا۔ سہم جانا۔
 ڈر جانا۔ خوف سے ڈبلا ہوجانا۔
 خونخوار (۱) - صفت (۱) خون پینے والا۔ ظالم۔ جلاد۔ شمشکر۔ (۲) خونریز
 خونخواری (۱) - مٹا ظلم و ستم۔ بے رحمی (۲) قتل۔
 خون دامن سے نہ چھوٹنا (۱) - معادہ قتل کا الزام قائم رہنا۔
 خون دل پینا (۱) - معادہ اندر ہی اندر غم کرنا۔ غصہ کھانا۔ بیچ و تاب کھانا۔ نہایت آنسو کرنا۔
 خون دوڑنا (۱) - معادہ خون کا حرکت کرنا۔ خون رگوں میں پھرنا۔
 خون رُلانا (۱) - معادہ اتہا سے زیادہ رُلانا۔ خون کے آنسو رُلانا۔ بہت ستانا۔
 خون روننا (۱) - معادہ بہت روننا۔ اتنا رونا کہ آنسوؤں کی جگہ نمون نکلنے لگے۔
 خون ریز (۱) - صفت خون بہانے والا۔ قاتل۔ خونخواری۔
 خونریزی (۱) - مٹا کشت و خون، جنگ و جدل، قتل و غارت۔ طہانی
 خون تھر تھر پھٹنا (۱) - معادہ خون سر پر سوار ہونا کسی کے قتل پر آمادہ ہونا۔ کسی کے مار ڈالنے پر تامل جانا۔

خوش نویس (۱) اچھا لکھنے والا (۲) کاتب۔ غرض خط۔ خوش رقم
 خوش نہاہ (۱) - صفت (۱) ایش لکھ۔ (۲) نیک طبیعت۔
 خوش و خرم (۱) - صفت ادب و نشاط۔ شاداں۔ مسرور
 خوش وقتی (۱) - مٹا خوش نصیبی۔ خوشی کا زمانہ۔ شاداں و خوشحالی
 خوشا (۱) - مسرت کا لکڑ۔ بہت اچھا۔ خوب۔
 خوشامد (۱) - شاداں (۱) - مٹا چاہلوسی۔ جھوٹی تعریف
 خوشامد در آمد (۱) - مٹا چاہلوسی۔
 خوشامد سے آمد ہے (۱) - مثل خوشامد سے اکثر فائدہ ہوا کرتا ہے۔
 خوشامد کا منہ کالا (۱) - مثل خوشامدی آدمی بے عزت ہوتا ہے۔
 خوشامدی (۱) - شاداں۔ (۲) - صفت اچھی طبیعتیں کرنیوالا۔
 خوشامد (۱) - شاداں (۲) - مٹا اچھا۔ اناج کی بانی۔
 خوشامد جیس (۱) - صفت (۱) وہ شخص جو کھیت کتنے کے بعد گریے بہتے ہوئے چن لیتا ہے۔ (۲) بیض حاصل کرنے والا (۳) دوسروں کی تخلیق سے فائدہ اٹھانے والا۔
 خوشی (۱) - مٹا (۱) - نشاط۔ شاداں (۲) مرضی (۳) جشن۔ شادی۔
 خوشی سے اپنی مرضی سے۔ رضا مندی سے۔
 خوشی سے کھلے جانا (۱) - معادہ مسرت کی وجہ سے ہنسا۔
 خوشی (کرنا) منانا (۱) - معادہ خوش ہونا۔
 خوشی کے مارے ماچھیں کھل جانا (۱) - مثل بہت خوش ہونا
 خوشی سے کھلکھلا کر ہنس پڑنا۔
 خوش (ع۔ ا۔ مذ) - غور۔ سوچ۔ فکر۔
 خوف (ع۔ ا۔ مذ) - ڈر۔ دہشت۔ ہراس۔ ہول۔
 خوف کرنا، کھانا (۱) - معادہ (۱) اندیشہ کرنا۔ ڈرنا (۲) دم کھانا تیرس
 خوفناک (ع۔ صفت) ڈراؤنا۔ بھیاناک۔ خطرناک
 خوگ (۱) - مذ) سورا۔ خنزیر
 خوگیر (خو۔ گیر) (۱) - مذ) (۱) زمین کی بھرتی۔ (۲) گدیلا۔ گدا (۳) زمین کے نیچے کا کپڑا۔ نہہ۔
 خوگیر کی بھرتی (۱) - معادہ (۱) نکتا اسباب (۲) بے کار دانگے آدمی۔ (۳) بھرتی گئے شعر
 خول (۱) - مذ) (۱) چھلکا (۲) اُدپر کا غلاف (۳) نیام۔ میان۔
 خول چڑھانا (۱) - معادہ غلاف چڑھانا۔ پترا چڑھانا
 خول ڈار (۱) - صفت وہ چیز جس میں بیج کا حصہ خالی ہو۔
 خولنجان (خو۔ لن) - جان (۱) - مٹا پان کی جڑ۔
 خوں (۱) - مذ) خون کا مختلف۔ سینی جس پر برتنوں میں کھانا چنتے ہیں۔
 خوں (۱) - مذ) (۱) لہو (۲) قتل (۳) نسل (۴) وہ سرخ رطوبت جو حیوانی جسم میں گردش کر کے اسے زندہ رکھتی ہے۔
 خون آشام (۱) - صفت خون پینے والا۔ خونخوار۔
 خون آلودہ (۱) - صفت لہو میں بھرا ہوا۔ لہو لہان

خویش انیش (ن۔ صف) (۱) قریب کا۔ رشتہ کا۔ اپنا (۲) [ض] اظہر
 آپسہ (۳) [اُر] داماد۔ بھرائی۔
 خویش و آقارب (ن۔ ۱)۔ مذا قریبی رشتہ دار
 خویشاؤند (ن۔ ضے)۔ شاد (۲) [اُر]۔ تی (۱)۔ مذا خویش و آقارب۔

خ۔ ہ۔

خہے (خ۔ ہے) (ن۔ کلمہ تحسین) واہ۔ مرحبا۔ آفرین۔ سبحان اللہ ہے

خی۔ ی۔

خیاباں (خ۔ یا۔ پاں) (ن۔ ۱)۔ مذا [پھلوڑی۔ کیداری۔ ۲۱] بلخ کے درمیان
 سے گزرتا ہوا راستہ
 خیاباں (خ۔ یا۔ ر) (ع۔ ۱)۔ مذا کھیرا۔ کلکڑی۔ ۲۱۔ خیر کی جمع۔ نیک لوگ
 خیاباں (خ۔ یا۔ ر) (ع۔ ۱)۔ مذا خیاباں کا ستیہ۔ کھیرے گلڑی دونوں
 کو کہتے ہیں۔
 خیاط (خ۔ یا۔ ط) (ع۔ ۱)۔ مذا [کپڑے سینے والا۔ درزی۔

خیاطی (خ۔ یا۔ ط) (ع۔ ۱)۔ مذا [درزی کا پیشہ
 خیال (خ۔ یا۔ ل) (ع۔ ۱)۔ مذا [تصور۔ وہ صورت جو آدمی بے داری
 میں تصور کرے۔ یا طراب میں دیکھے (۲) فکر۔ اندیشہ (۳) دھیان۔
 غور و خوض (۴) [اُر] سمجھ۔ رائے۔ (۵) منشا۔ اوادہ (۶) توجہ۔ التفات
 (۷) ادب۔ گمان۔ (۸) ایک ماگ کا نام (۱۱) مضمون (۱۰) پاس۔ لحاظ۔

جمع خیالات
 خیال آنا (ن۔ مقولہ) اچھا یاد آنا۔
 خیال باطل (خ۔ یا۔ ط) (ع۔ ۱)۔ صفت اچھوٹا خیال۔
 خیال باندھنا (خ۔ یا۔ ط) (ع۔ ۱)۔ محاورہ تصور کرنا۔ منصوبہ باندھنا سوچنا کسی بات کا
 برابر خیال کرنا۔

خیال بندی (خ۔ یا۔ ل) (ع۔ ۱)۔ صفت (سلسلہ خیالات۔ خیالی تصویر۔ سوچ۔
 خیال پر چھٹنا (خ۔ یا۔ ط) (ع۔ ۱)۔ محاورہ یاد آنا۔ کسی بات کا یاد رہنا۔ ذہن نشین ہونا
 خیال بڑھانا (خ۔ یا۔ ط) (ع۔ ۱)۔ محاورہ خیال ہونا۔ یاد آنا۔ شہ گزنا۔
 خیال چھوڑنا (خ۔ یا۔ ط) (ع۔ ۱)۔ محاورہ کسی دھیان کو ترک کرنا۔
 خیال خام (خ۔ یا۔ ل) (ع۔ ۱)۔ مذا کچا خیال۔ بیسودہ خیال۔ وہ خیال جس کے پورا
 ہونے کی امید نہ ہو۔

خیال دوڑنا (خ۔ یا۔ ل) (ع۔ ۱)۔ محاورہ ایک ایک خیال کسی امر کی طرف جانا۔
 خیال رکھنا (خ۔ یا۔ ط) (ع۔ ۱)۔ محاورہ دھیان رکھنا۔ نہ بھولنا۔ یاد رکھنا۔ لحاظ رکھنا۔
 توجہ رکھنا۔ کسی کام کی فکر رکھنا۔
 خیال سے آزر جانا (خ۔ یا۔ ط) (ع۔ ۱)۔ محاورہ یاد سے آزر جانا۔ بھول جانا۔ فراموش
 کر دینا۔
 خیال سے باہر (خ۔ یا۔ ل) (ع۔ ۱)۔ صفت دور از خیال۔ جو سمجھ میں نہ آسکے۔
 خیال فاسد (خ۔ یا۔ ل) (ع۔ ۱)۔ مذا بڑا خیال۔ بے ہودہ خیال۔

خون سر پر گھر کر لوٹا ہے (۱)۔ مثل ا قتل چھپا نہیں رہتا
 خون سر پر لینا (۱)۔ محاورہ ا قتل کا الزام لینا۔
 خون سفید ہونا (۱)۔ محاورہ ا مہر و محبت نہ رکھنا۔ محبت جاتی رہنا۔
 خون سوار ہونا (۱)۔ محاورہ ا قتل پر آمادہ ہونا۔
 خون کا پیسا (ن۔ ۱)۔ صفت ا جان کا لاگو۔ جانی دشمن۔ تشنہ خون
 خون کا جوش (۱)۔ مذا وہ محبت جو خون کے رشتہ سے عزیزوں،
 رشتہ داروں میں ہوتی ہے۔

خون کا بدلہ خون (۱)۔ مقولہ ا جیسی خطا ویسی سزا۔ قصاص۔
 خون کا دریا (۱)۔ مذا بہت خون ریزی۔
 خون کا دورہ (۱)۔ مذا خون کا جسم میں گردش کرنا۔ خون کا چکر۔ دوران
 خون کا عوض (۱)۔ مذا قصاص۔ خون کا بدلہ۔
 خون کرنا۔ قتل کرنا۔

خون کبوتر (۱)۔ مذا کبوتر کے خون جیسی شراب سرخ۔ نہایت سرخ
 خون کی بو آنا (۱)۔ محاورہ ا کشت و خون کی علامت ظاہر ہونا۔ دشمنی
 کی علامت ظاہر ہونا۔
 خون کے گھونٹ پینا (۱)۔ محاورہ ا غم و غصہ کو برداشت کرنا۔ بڑے
 ہنڈ سے کام لینا۔

خون گردن پر ہونا (۱)۔ محاورہ ا قتل کا دم دار ہونا۔ قتل کرنا۔
 خون گردن پر سوار ہونا (۱)۔ محاورہ ا ہاتھ دھو کر کسی کی جان لینے
 کے دیر سے ہونا۔
 خون گرفتہ (ن۔ ۱)۔ صفت ا جل رسید۔ قتل کرنے کے قابل
 خون گشتہ (ن۔ ۱)۔ صفت ا خون میں ڈوبا ہوا۔ ناکام۔

خون لگے لگے شہیدوں میں داخل ہونا (مثل) انے عمل سے بڑے
 دے کا طالب ہونا۔
 خون لہنا (۱)۔ محاورہ ا فصد کرنا۔
 خون ملنا (۱)۔ محاورہ ا ایک خاندان یا کنبے سے ہونا۔
 خون منہ کو لگ جانا (لگتا) (۱)۔ محاورہ مزا پہنچانا۔

خون میں تھانا (۱)۔ محاورہ ا کثرت سے خون نکلنا۔ زیادہ زخمی ہونا۔
 خون نکلوانا (۱)۔ محاورہ ا فصد کھلوانا۔
 خون ہلکا ہونا (۱)۔ محاورہ ا عورتیں اس بچے کے متعلق کتنی ہیں جس کو
 بڑی نظر لگ جاتے (۲) خون دیکھ کر گھبرا جانا۔
 خون ہونا (۱)۔ محاورہ ا زخمی ہونا۔ مجبور ہونا۔ رنجیدہ ہونا۔ قتل ہونا۔
 خوناب خونابہ (خ۔ یا۔ ط) (ع۔ ۱)۔ مذا (۱) خالص خون۔
 (۲) خون کے آنسو۔ پانی ملا ہوا خون۔ (۳) لال۔ سرخ۔

خون نہ فشانی (ن۔ ۱)۔ صفت ا خون کے آنسو برسانا۔ خون رونا۔
 خونئی (خ۔ یا۔ ل) (ع۔ ۱)۔ مذا (۱) وہ جس نے کسی کو مار ڈالا ہوا (۲) قاتل
 سفاک۔ ظالم۔ جلاڑ۔
 خونئی دست (ن۔ ۱)۔ مذا (۱) لہو کے دست۔ خونئی پیش۔
 خونین (خ۔ یا۔ ل) (ع۔ ۱)۔ صفت ا خون آلود۔ سرخ۔ لال۔
 خورید (خ۔ یا۔ ل) (ع۔ ۱)۔ صفت ا ہرے بھریا گھیسوں۔

خیال کرنا (۱۱) - مدارہ (۱۱) سوچنا - فکر کرنا (۱۲) قیاس کرنا - لحاظ کرنا (۱۳)
 دھیان کرنا -
 خیالی میں گزارنا (۱۱) - مدارہ (۱۱) دھیان میں لانا - پروا نہ کرنا - کچھ نہ سمجھنا -
 (۲۱) نہ ڈرنا -
 خیالی (خ.ی) - یا۔ لی [ف. وصف] - دھی - قیاسی - ظنی -
 خیالی پلاؤ پگانا (۱۱) - مدارہ (۱۱) ایسی باتیں سوچنا جو ممکن نہ ہوں -
 خیتام (خ.ی) - یا۔ لی [ع.۱۰] - مذ [ع.۱۰] - خیر و ذرا - خیر و ذرا - ایک مشہور فارسی
 شاعر کا تخلص -
 خیانت (خ.ی) - یا۔ انت [ع.۱۰] - مت [ع.۱۱] - وفادہ - دھوکا - [ع.۲] - عین - بغت
 بددیانتی - بے ایمانی - امانت میں چوری
 خیانت بھرا مانہ (قانون) وہ خیانت جو سرکاری جرم میں داخل ہو - اس مال
 کو دبا لینا جو کسی نے بطور امانت رکھا ہو -
 خیر (ع.۲۰) - مذ [ع.۲۰] کے ایک قلعہ کا نام جسے حضرت علیؑ نے فتح کیا تھا - (۲۱)
 خیال پاکستان اور افغانستان کو ملانے والا پہاڑی راستہ -
 خیر شکن (ع.۲۰) - ف. ۱۰ - مذ [ع.۲۰] قلعہ خیر کے فاتح - حضرت علی کرم اللہ وجہہ
 خیر (ع.۱۰) - مت [ع.۱۰] - نجلی - بھلائی - اچھائی (۲) - برکت (۳) - سلامتی - تندرستی -
 عاقبت (۳) - طنز (۱) - ٹھیک - بجا - درست -
 خیر الامور او مسطہا (مکمل) ہر کام کا اوسط بہتر ہوتا ہے - ہر کام میں
 میانہ روی بہتر ہوتی ہے -
 خیر الامور (خیر العشر) مخلوقات میں سب سے بہتر - بہترین انسان رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم کے آفتاب -
 خیر النساء (ع.۲۰) - مت [ع.۲۰] عورتوں میں سب سے بہتر - حضرت فاطمہ کا لقب
 خیر اور (ع.۲۰) - مذ [ع.۲۰] بہترین مخلوق - رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب
 خیر اندیش (ع.۲۰) - ف. ۱۰ - صف [ع.۲۰] بھلائی چاہنے والا خیر خواہ - وہی خواہ
 خیر باد (کلمہ نخصت) خدا حافظ - اللہ بلی -
 خیر باد کہنا (۱۱) - مدارہ (۱۱) رخصت کرنا (۲) کسی چیز کو ترک کرنا -
 چھوڑ دینا -
 خیر باشند (۱۱) خیر تو ہے؟ کسی کو گھبرا یا ہوا دیکھ کر کہتے ہیں -
 خجابل علفانہ یا شکایت دوستانہ کے موقع پر بھی استعمال کرتے ہیں -
 خیر باشند کہ ہر کرم کیا - خیر تو ہے - کیونکر آتا ہوا (۱۱) - مدارہ (۱۱) کیا راستہ
 بھول گئے - خلاف عادت آنے کا سبب کیا ہے -
 خیر برکت (ع.۲۰) - ف. ۱۰ - مذ [ع.۲۰] (۱) - برکت (۲) خوشحالی -
 خیر تو ہے (کلمہ تعجب) دیکھیے خیر باشند
 خیر جو ہوا سو ہو (۱۱) - مفولہ (۱۱) اچھا ہوا - اب پھلی باتوں کو چھوڑو -
 خیر صلیح کے بعد اگر کوئی فریق شکایت کرے تو کہتے ہیں -
 خیر چاہنا (۱۱) - مدارہ (۱۱) بھلائی یا سلامتی چاہنا -
 خیر خیر (ع.۲۰) - ف. ۱۰ - مت [ع.۲۰] (۱) اچھی خبر - نیک خبر (۲) خیرین - خیر و عاقبت
 خیر سلا -
 خیر خواہ (ع.۲۰) - ف. ۱۰ - صف [ع.۲۰] بھلائی چاہنے والا - خیر اندیش - وہی خواہ
 خیر خواہی (ع.۲۰) - ف. ۱۰ - مت [ع.۲۰] بھلائی چاہنا - بہتری چاہنا - خیر اندیشی -

خیر سنگالی (ع.۲۰) - ف. ۱۰ - مت [ع.۲۰] بھلائی سوچنا -
 خیر سلا (ع.۲۰) عربی خیر و صلاح سے بگڑا ہوا ہے (۱) خیریت - خیر و عاقبت
 (۲) مزاج پرستی -
 خیر سے (۱۱) خیر و عاقبت سے صحیح و سلامت - (۲) (طنزاً) ماشاء اللہ -
 خیر سے کتنا - خیر سے گزارنا (۱۱) - مدارہ (۱۱) سلامتی سے بسر ہونا -
 خیر گزارنا - خیر تو ہوا (۱۱) - مدارہ (۱۱) آفت سے بچنا - دانگمانی صدمے یا حادثے
 سے بچنے کے موقع پر بولتے ہیں (۱)
 خیر گزری (۱۱) - مدارہ (۱۱) آفت سے بچ جانے پر کہا جاتا ہے -
 خیر مانگنا (۱) - مدارہ (۱۱) سلامتی چاہنا - بھلائی چاہنا (۲) توبہ کرنا -
 مغفرت چاہنا -
 خیر مقدم (ع.۲۰) - مذ [ع.۲۰] (۱) استقبال (۲) وہ کلمہ جو کسی بزرگ یا عالی مرتبہ
 کے تشریف لانے کے وقت کہا جاتا ہے - خوش آمدید - آپ کا آنا مبارک
 بہت اچھے آئے -
 خیر منانا (۱۱) - مدارہ (۱۱) بھلائی چاہنا - سلامتی چاہنا - دعائے نیک کرنا -
 خیر و عاقبت (ع.۲۰) - ف. ۱۰ - مت [ع.۲۰] خیر سلا - خیریت - سلامتی - تندرستی -
 خیر ہے - خیر تو ہے - کلمہ تعجب (۱) اُس جگہ بولتے ہیں جب کوئی بے عمل
 یا بے وقت کوئی کام کرتا ہے
 خیالات (خ.ی) - رات (ع.۲۰) - مت [ع.۲۰] خیبر کی جمع - نیکیاں - بھلائیاں -
 (۲) [اُ] [ع.۲۰] صدمہ - دان -
 خیرات خانہ - محتاج خانہ - لنگر خانہ -
 خیرات داخل (۱۱) خیرات میں شامل - مثل خیرات کے صرف بجا -
 خیرات دافع آفات ہے (۱۱) - مفولہ (۱۱) صدقہ بلاؤں کو دور کرتا ہے -
 خیرات دینا (۱۱) - مدارہ (۱۱) خدا کی راہ میں دینا - صدقہ دینا - دان دینا -
 خیرات کے فکڑے اور بازار میں ڈکارا (۱۱) - مثل (۱) مانگ مانگ کر گزرتا ہے
 کرے اور اس پریشیاں مارے اس کے متعلق کہتے ہیں -
 خیراتی (خ.ی) - یا۔ فی [ف. ۱۰] - صف [ع.۲۰] خیرات سے منسوب نعت کا -
 خیرات (ع.۲۰) - مت [ع.۲۰] آنکھوں کے آگے (صف) - حیران - پریشان
 (۲) بے شرم - گستاخ (۲) بے فائدہ - بے وجہ
 خیر کی (خ.ی) - ری [ف. ۱۰] - مت [ع.۲۰] چکا چوند - آنکھوں کے سامنے انہیل
 آجانے کی کیفیت (۲) بے حیائی - شوخ چشمی -
 خیر الامم (ع.۲۰) - مت [ع.۲۰] بہترین اُمت - اُمت مسلمہ -
 خیر و عاقبت (خ.ی) - [ع.۲۰] مذ [ع.۲۰] خطمی -
 خیرہ (خ.ی) - [ع.۲۰] - صف [ع.۲۰] تاریخ (۲) بے جیا - شوخ چشم (۳)
 حیران و پریشان -
 خیرہ چشم (ف. ۱۰) - صف [ع.۲۰] جس کی آنکھ میں چکا چوند ہو - چندھیایا ہوا -
 شوخ چشم - بے جیا - گستاخ - حیران - پریشان -
 خیرہ سزا نگاہ (ا.ف) - صف [ع.۲۰] بے باک - سرکش - شوخ - گستاخ - مغز بہبود
 خیرہ سری (ا.ف) - مت [ع.۲۰] بے باک - سرکشی - شوخی - لگتی بے حیائی -
 خیریت (خ.ی) - ری [ع.۲۰] - مت [ع.۲۰] (۱) نیکی - بھلائی (۲) تندرستی -
 سلامتی - جمعیت -

<p>خیل خیل (ع۔ مذ) گروہ۔ گروہ۔ جماعت۔ جماعت۔ خیل خانہ (ق۔ ۱۰۔ مذ) خاندان۔ ہجوم۔ خیلا (ط۔ لا) [اڑ۔ صفت] لغو۔ بے ہودہ۔ احمق۔ بے وقوف۔ خیلا بنانا (ا۔ محاورہ) بے وقوف بنانا۔ خیلا پانچیا (۱۱۔ مثن) بھو بھڑ عورت۔ خیلا پن اپنا (بے سلیقگی۔ بے وقوفی۔ حماقت۔ نادانی۔ پھوٹ پنی۔ خیلے بٹے۔ لے) [ن۔ صفت] بہت زیادہ۔ خیم (ع۔ مذ) خیمہ کی جمع۔ خیمہ اسف۔ مہ (ع۔ ۱۰۔ مذ) تینو۔ ڈیرہ۔ خرگاہ خیمہ ازرق (ع۔ مذ) نیلا خیمہ۔ آسمان۔ خیمہ استادہ ہونا (۱۱۔ محاورہ) خیمہ کھڑا ہونا۔ خیمہ لگانا۔ خیمہ دوز (ع۔ ف۔ مذ) تینو سینے اور بنانے والا۔ ختام خیمہ زن (ع۔ ف۔ صفت) خیمہ لگانے والا۔ خیمہ گاہ (ع۔ ف۔ ۱۰۔ مذ) لشکر گاہ۔ ڈیرا۔ پڑاؤ۔ کیمپ خیمے ڈال دینا (۱۱۔ محاورہ) اتر پڑنا۔ چھانڈنی چھا دینا۔ خیول (ع۔ مذ) خیل کی جمع۔ دیکھیے خیل</p>	<p>خیزات (فارسی مصدر خاستن کا امر۔ مکھ ۱۲) [مذ] اٹھنا۔ کودنا۔ دوڑنا۔ حست لگانا۔ (۱۳) اٹھانا۔ پیدا کرنا۔ (۱۴) پھلانگ (۱۵) پیدا کرنے والا۔ مرکبات میں استعمال ہوتا ہے۔ جیسے حیرت خیز۔ مردم خیز وغیرہ خیزائ (ض۔ زان) [ن۔ صفت] اٹھا ہوا۔ کھڑا ہوا۔ نکلتا ہوا۔ خیزکھن۔ خیزی اسف۔ زش، ضے۔ زی [ن۔ ۱۰۔ مثن] [۱۱] اٹھنا۔ کودنا ۲۱ امرکبات میں استعمال ہوتا ہے۔ جیسے فتنہ خیزی (۳۱) مجازاً معضو تناسل کی استادگی۔ خیساندہ (ض۔ سان۔ ذہ) [ن۔ ۱۰۔ مذ] دوا جو بھگو کر پی جائے۔ خیط (ع۔ مذ) دھاگا۔ خیط الا بیض (ع۔ مذ) سفید دھاگا (۲۱) مہج کا اجالا۔ خیط الاسود (ع۔ مذ) سیاہ دھاگا۔ (۲۱) شام کے بعد کی تاریکی۔ خیف (ع۔ مذ) باپ کی جانب سے سونپلا بھائی۔ خیفہ (طی۔ فا) [ع۔ ۱۰۔ مثن] [۱۱] نظم یا نثر میں ایک لفظ نقطہ دار اور دوسرا بغیر نقطہ کے لانا (۲) وہ گھوڑی جس کی ایک آنکھ نیلی اور ایک سیاہ ہو۔ خیل (ع۔ ۱۰۔ مذ) [۱۱] گروہ۔ جماعت (۲) بہت سے سوار بہت سے گھوڑے۔ (۳۱) گھوڑوں کا گتہ۔</p>
--	---

د

د۔ (دال) (ع۔ مٹ) (۱) اُردو کا لگیا رکھوں۔ فارسی کا دسواں۔ عربی کا آٹھواں اور ہندی کا اٹھارہواں حرف (۲) سے دال مُجرب بھی کہتے ہیں (۳) اجد کے حساب میں اس کے چار عدد ہیں۔ اس کی آواز دانتوں سے نکلتی ہے۔ عربی میں شمس حرف ہے۔ اس کے پہلے ال آئے تو آواز نہیں دیتا۔ بلکہ دال کو مشدّد کرتا ہے۔ جیسے الداخل۔ تقویم میں بڑھ کے دن کی اور علم نجوم میں عطارد کی علامت۔

(۸) مطلوب کرنا (۹) مجبور کرنا۔

دابہ۔ (ع۔ ۱۔ مذ) (۱) زمین پر چلنے والا جانور (۲) چوپایہ (۳) لاڈو جانور۔
دانا۔ (ع۔ صفت) (۱) دینے والا۔ سخی۔ قیاض (۲) رزاق۔ خدا (۳) درویش فقیر۔ سائیں۔

دانا بن کر سے کجوس جھڑ جھڑ مرے۔ (۱) مثل سخی خیرات کرتا ہے اور نیکل حد سے مرا جاتا ہے۔

دانا داتا مر گئے اور رہ گئے کھی چوس۔ لین دین کو کچھ نہیں لڑنے کو موجود۔ (۱) مثل سخی مر گئے اور کجوس رہ گئے۔ دیتے دلاتے کچھ تیس لڑنے کو تیار رہتے ہیں۔

دانا دان کرے بھنڈاری کا پیٹ پھٹے۔ (۱) مثل سخی سخامت کتابہ اور شوم نیکل حد سے بل بل مرتا ہے۔

دانا کا دان غریب کا آستان۔ (مثل) سخی کے خیرات کرنے سے غریب کا کام چل جاتا ہے۔

داتا کے دینے کے سوا کچھ۔ (مثل) خدا جب دینے پر آتا ہے تو سوطر سے دیتا ہے۔

دانا کی ناؤ بہاڑ پڑھے۔ (مثل) (۱) سخی ہمیشہ کامیاب رہتا ہے (۲) سخی کی مشکلات آسان ہوتی ہیں۔

دانا بن۔ (دانا۔ تاپین) (ع۔ ۱۔ مذ) (۱) قیاض۔ سخامت (۲) بخشش کرنے کی عادت۔

داتار۔ (داتار) (ع۔ ۱۔ مذ) داتا۔ سخی۔

داتر۔ (داتر) (ع۔ ۱۰۔ مذ) ایک اوزار جس سے فصل کاٹنے کا کام لیا جاتا ہے۔

داتری۔ (داتری) (ع۔ ۱۰۔ مذ) داتا۔ سخی۔

دان۔ (دان) (ع۔ ۱۰۔ مذ) دانتوں کو صاف کرنے کی لکڑی۔ مسواک۔

داٹ۔ (داٹ) (ع۔ ۱۰۔ مذ) (۱) انہو۔ (۲) جوم۔ (۳) گہرا۔ (۴) سخت۔ (۵) مضبوط۔

داٹ پڑنا۔ (۱) عمارت۔ (۲) ق۔ (۳) مسلط ہونا۔

دانا داٹ۔ (۱) جوم۔ (۲) بیڑ۔ (۳) ق۔

دائین۔ (دائین) (ع۔ ۱۰۔ مذ) (۱) جوم کرنا۔ (۲) اکٹھا ہونا (۳) بھر پور ہونا۔

دانی۔ (دانی) (ع۔ ۱۰۔ مذ) (۱) ڈانٹ۔ (۲) ڈپٹ۔

دالچ۔ (دالچ) (ع۔ ۱۰۔ مذ) (۱) جہیز (۲) عمارت کی۔ (۳) تاریک۔ (۴) گھٹا ٹپ اندھرا۔

دالجل۔ (دالجل) (ع۔ ۱۰۔ مذ) (۱) اندھ جانے والا۔ (۲) گھٹنے والا (۳) پینے والا۔

د

داب۔ (ع۔ ۱۰۔ مذ) (۱) بوجھ۔ وزن۔ دباؤ (۲) چھاپے کا نشان (۳) کل پائین سے ایک بار نکلتا (۴) خرچہ صلت۔ عادت (۵) درخت یا پلو دے کی پتی جو بڑھ کر نونے کے لیے دبائی جائے۔

داب بٹھانا۔ (۱) عمارت۔ (۲) زور دینا۔ دباؤ ڈالنا (۳) رعب ڈالنا (۴) بے جا حکومت کرنا۔

داب بٹھ جانا۔ (۱) عمارت۔ (۲) سکے بیٹھ جانا۔

داب بٹھنا۔ (۱) عمارت۔ (۲) زبردستی قبضہ کر لینا (۳) نیچے دبانا (۴) خیانت کرنا (۵) زنا وغیرہ کے لیے پکڑ لینا (۶) رعب پڑنا (۷) خرچہ بیٹھنا۔

داب جمانا۔ (۱) عمارت۔ (۲) داب بٹھانا (۳) رعب بٹھانا۔

داب جمانا۔ (۱) عمارت۔ (۲) داب کا پتی صحیح جگہ بیٹھ جانا (۳) رعب پڑنا۔ ڈر بیٹھنا۔

داب چوک جانا۔ (۱) عمارت۔ (۲) چھپائی میں کاغذ کا پھینے سے رہ جانا۔

داب دینا۔ (۱) عمارت۔ (۲) دینا۔ (۳) دبا دینا (۴) چھپا دینا (۵) رعب ڈالنا۔

داب رکھنا۔ (۱) دانا۔ دبا کر روکنا (۲) دبا کر نیچے رکھنا (۳) نہ دینا (۴) چھپانا۔ (۵) پرتا (۶) ناجائز طور پر بیٹھنے میں رکھنا (۷) روپیر مار لینا۔

داب لینا۔ (۱) روپیر مار لینا۔ (۲) رعب کر لینا (۳) قابو کر لینا (۴) پھیننا۔

دبانا (۱) مطلوب کر لینا۔ دبانا (۲) عاجز کرنا۔ مجبور کرنا۔

داب۔ (ع۔ ۱۰۔ مذ) (۱) شان و شوکت (۲) نمود و نمائش (۳) رعب۔ (۴) دہاک۔

داب۔ (ع۔ ۱۰۔ مذ) (۱) آداب۔ طور طریق (۲) رسم۔ رواج (۳) عادت۔ (۴) کام۔ کار۔ دھندا (۵) حالت۔ کیفیت (۶) زور سے چلنا۔

داب سلطنت۔ (ع۔ ۱۰۔ مذ) (۱) طریق سلطنت۔ آداب حکومت۔

داب صحبت۔ (ع۔ ۱۰۔ مذ) (۱) تہذیب۔ شان و شوکت (۲) آداب۔ اخلاق۔

لوگوں میں اٹھنے بیٹھنے۔ بولنے۔ گفتگو کرنے کے آداب۔

دبا۔ (ع۔ ۱۰۔ مذ) (۱) بھار کر جانوں یا کپلوں سے ڈھاپنا تاکہ پسینہ آجائے۔

(۲) بوجھ (۳) رعب۔ زبردستی (۴) استعمال یا تجربہ (۵) سونا۔ اشرفی

دبا دینا۔ (۱) عمارت۔ (۲) رعب ڈالنا۔ دھکانا۔

دبانا۔ (دبانا) (ع۔ ۱۰۔ مذ) (۱) رعب سے نیچے بٹھانا (۲) چھپنا کرنا۔

بدن دبانا (۳) دن کرنا (۴) دھکا (۵) پھیننا (۶) حکومت کرنا (۷) دھکانا۔

(۳) گھسا ہوا۔ اندر گیا ہوا (۴) شامل۔ ملحق (۵) بڑی زمین کے ساتھ متوالی
 زمین کی شمولیت (۶) ادائیگی۔ سہولگی۔
 داخل شتات ہونا۔ (۱) محاورہ، کسی اچھے کام میں شرکت کر کے ثواب
 حاصل کرنا۔
 داخل خاراج۔ (ع۔ ۱۔ ۱) مذ، سرکاری رجسٹر میں جانامد کے نئے نامک کے نام
 کا اندراج۔
 داخل دفتر۔ (ع۔ ۱۔ ۱) مذ، (۱) شامل سہل (۲) نامعلوم۔ التوا (۳) مقدمہ یا
 درخواست کا خارج ہونا۔
 داخل کرنا۔ (۱) محاورہ، (۱) اندر کرنا گھیرنا (۲) شامل کرنا۔ ملانا (۳) سپرد
 کرنا۔ سونپنا (۴) رویداد کرنا یا پہنچانا (۵) نام کھوانا۔ درج کرنا۔ بھرنی
 کرنا (۶) جفتہ دلانا۔ حوالہ کرنا۔
 داخل کنندہ۔ (۱) داخل کرنے والا (۲) ادراک کرنے والا۔
 داخلہ۔ (د۔ ۱۰۔ ۱) مذ، (ع۔ ۱) مذ، (۱) سپردگی۔ حوالگی۔ تفویض (۲) روپہ کی رسید
 مالگذاڑی کی رسید۔ محصول یا چنگی کی رسید (۳) بازیابی۔ گذر۔ وختل۔
 رسائی۔ پہنچ (۴) داخل کرنے کی تیسس۔ اجرت (۵) مدرسے یا جماعت
 میں داخل ہونا۔ (۵) ملک کے اندرونی معاملات۔
 داخلہ ہی۔ (ع۔ ۱۔ ۱) مذ، وہ رجسٹر یا کتاب جس میں داخلہ یا وصولی کی رقم
 درج ہوتی ہے۔
 داخلی۔ (د۔ ۱۰۔ ۱) مذ، (ع۔ ۱) مذ، (۱) اندرونی۔ اندر سے متعلقہ (۲) مشورہ
 ملحقہ (۳) جیلی۔ قدرتی (۴) کسی مقدس جگہ یا مقبرہ میں داخل ہونے کا دن۔
 داخلی موضع۔ (ع۔ ۱۔ ۱) مذ، چھوٹا موضع جو کسی بڑے موضع کا حصہ ہو۔
 داخلیتہ۔ (ع۔ ۱۰۔ ۱) مذ، (د۔ ۱۰) مذ، (۱) وہ درس گاہ جس میں بورڈنگ
 ہاؤس بھی ہو۔
 داد۔ (د۔ ۱۰۔ ۱) مذ، بھینوں کا وہ پھتے جو فنا و خون کے باعث جسم پر ظاہر ہوجاتے
 ہیں اور ان میں ٹھیلی جوتی ہے۔
 داد۔ (د۔ ۱۰۔ ۱) مذ، (۱) عدل۔ انصاف (۲) عطا بخشش (۳) آفرین تیسیں
 دباہ (۴) فریاد۔ نالش (۵) سزا۔ پاداش۔
 داد بخش (رک۔) (د۔ ۱۰۔ ۱) مذ، (ع۔ ۱) مذ، (۱) عدل۔ انصاف۔
 داد گہنی۔ (د۔ ۱۰۔ ۱) مذ، عدل و انصاف۔
 داد پیداو۔ (د۔ ۱۰۔ ۱) مذ، فریاد۔ نالش۔ انصاف کے لیے شور۔ دکاؤں۔
 داد پانا۔ (۱) محاورہ، (۱) انصاف کو پہنچانا (۲) تیسیں حاصل کرنا۔
 داد چاہنا۔ (۱) محاورہ، (۱) انصاف چاہنا (۲) تیسیں چاہنا۔ آفرین کا
 خواہاں ہونا۔
 داد خواہ۔ (د۔ ۱۰۔ ۱) مذ، فریاد۔ بستیت۔
 داد خواہی۔ (د۔ ۱۰۔ ۱) مذ، (۱) فریاد۔ استغاثہ (۲) انصاف چاہنا (۳)
 نالش۔ دعویٰ۔
 داد دینا۔ (۱) محاورہ، (۱) کسی کے ہنر کمال یا خوبی کی تعریف کرنا (۲)
 انصاف کرنا۔
 داد رسی۔ (د۔ ۱۰۔ ۱) مذ، (۱) فریاد سننے والا (۲) انصاف کرنے والا۔
 داد رسی۔ (د۔ ۱۰۔ ۱) مذ، (۱) فریاد رسی۔ چارہ سازی (۲) انصاف۔ جتنی رسی

داد سخن۔ (د۔ ۱۰۔ ۱) مذ، بات یا شعر کی تعریف۔
 داد شجاعت دینا۔ (۱) محاورہ، بہادری دکھانا۔ جنگ میں دلیری سے لڑنا
 داد طلب۔ (د۔ ۱۰۔ ۱) مذ، (۱) استغاثہ۔ فریاد (۲) تعریف کا خواہش مند۔
 داد عیش و نشاط دینا۔ (۱) محاورہ، خوب عیش کرنا۔ عیش و عشرت میں
 مشغول ہونا۔
 داد فرما۔ (د۔ ۱۰۔ ۱) مذ، (۱) خدا (۲) منصف بادشاہ۔
 داد فریاد۔ (د۔ ۱۰۔ ۱) مذ، (۱) نالش۔ استغاثہ (۲) فریاد۔ دادویلا۔
 داد کو پہنچانا۔ (۱) محاورہ، (۱) فریاد رسی کرنا (۲) انصاف پانا (۳) صلہ پانا۔
 ہنر یا کمال کی تعریف حاصل کرنا۔
 داد گزہ۔ (د۔ ۱۰۔ ۱) مذ، (۱) عدالت۔ انصاف کی جگہ۔
 داد گستر۔ (د۔ ۱۰۔ ۱) مذ، (۱) منصف۔ عادل (۲) خدا تعالیٰ (۳) منصف
 بادشاہ۔
 داد گستری۔ (د۔ ۱۰۔ ۱) مذ، (۱) انصاف۔ داد رسی۔
 داد لینا۔ (۱) محاورہ، تیسیں حاصل کرنا۔
 داد مانگنا۔ (۱) محاورہ، (۱) انصاف کا ظالماں ہونا (۲) تعریف کا
 خواہاں ہونا۔
 داد نہ فریاد۔ (۱) تلف (۲) اذہیر۔ ظلم۔ ناشوائی۔
 داد و دریش۔ (د۔ ۱۰۔ ۱) مذ، (۱) عطا بخشش (۲) فیاضی۔ سخاوت۔ خیرات۔
 داد و ستد۔ (د۔ ۱۰۔ ۱) مذ، (۱) لین دین (۲) باہمی حساب کتاب بمعاملہ (۳) خرید
 فروخت۔
 دادا۔ (د۔ ۱۰۔ ۱) مذ، (۱) باپ کا باپ (۲) گرد۔ اُستاد (۳) بڑا بھائی (۴) بڑی مٹر
 والا۔ بوڑھا۔
 دادا بردار دادا کے راج کی باتیں کرنا۔ (۱) ایشل پرانے زمانے کے
 حالات کا ذکر کرنا۔
 دادا جان پرانے بڑے آزاد کرتے تھے۔ (۱) ایشل، بیٹنی مارنے والے
 کے متعلق کہتے ہیں۔
 دادا کہنے سے بنیا کر دیتا ہے۔ (۱) ایشل، خوشامد سے کچھ نہ کچھ مل
 ہی جاتا ہے۔
 دادا مر جس کے جب پہل بیٹیں گے۔ (۱) ایشل، دادا کے مرنے پر جانامد
 تقسیم ہوگی۔ یہ ضرب اشک آس وقت برلی جاتی ہے جب کسی معاملہ میں تائیر
 ظاہر کرنا مراد ہو۔
 داد ر۔ (د۔ ۱۰۔ ۱) مذ، (۱) مذ، بیٹنگ۔
 داد ر۔ (د۔ ۱۰۔ ۱) مذ، (۱) ایک قسم کا گیت (۲) تیسیں (۳) ملحق۔ تالو۔ ملحق کا کوآ۔
 داد ر پٹھ جانا۔ (۱) محاورہ، خوش آجانا۔ بیٹنی جکر جانا۔
 داد رس۔ (د۔ ۱۰۔ ۱) مذ، (۱) ساس کی ساس۔ دریا ساس۔
 داد رسرا۔ (د۔ ۱۰۔ ۱) مذ، (۱) سسر کا باپ۔
 داد رسی۔ (د۔ ۱۰۔ ۱) مذ، (۱) ساس کی والدہ۔ بوڑھی عورت۔
 داد ر۔ (د۔ ۱۰۔ ۱) مذ، (۱) غم۔ غم۔ سسر۔ سسر۔ سسر۔ سسر۔ سسر۔
 داد رالہ بتلا۔ (د۔ ۱۰۔ ۱) مذ، (۱) مصیبت کا گھر۔ مراد دینا۔

دارالحکامات - (ع ۱۰ - ذ ۱) بدل ملنے کا گھر - حاجت - مقام بزازو سزا (۲) دنیا -

دارالنعیم - (ع ۱۰ - ذ ۱) مفتوں کا گھر بزاز ہشت -

دارالتکلیف - (ع ۱۰ - ذ ۱) قیموں کے رہنے کی جگہ - تیم خانہ -

دارستش قدر - (۱) چھ دروازوں والا گھر (۲) دنیا جس کے چھ دروازے مشرق مغرب شمال جنوب اور اسیسے ہیں -

دار - (ن ۱ - م ۱) سولی - وہ نوگدار کو لٹی جسے زمین میں میخ کی طرح گاڑ کر اُس پر مجرم کی جان لیا کرتے تھے (۲) فارسی لاحقہ بر معنی رکھنے والا جیسے آبدار - دلدار (۳) پھانسی -

دارباز - (ف - ص ۱) نٹ (۲) بازی گر - جو بانس پر چڑھ کر تماشہ کرتا ہے -

داربست - (ن ۱ - م ۱) کڑی کا باڑ جس پر بیٹھ کر معمار کام کرتے ہیں - (۲) ٹھاٹھ جس پر انگری کی بیل چڑھاتے ہیں -

دار پر چڑھانا - (۱) عمارت، سولی پر چڑھ کر قتل کرنا - پھانسی دینا - دارو کینتر - (ن ۱ - م ۱) بکڑ، دھوکا، پربش - مواخذہ (۲) لڑائی کا شور کا جو (۳) شکل - وقت - آٹھٹار -

داروگیر کی صدا بلند ہونا - (۱) عمارت، لڑائی کا شور ہونا -

دارو مدار - (ن ۱ - م ۱) بیج بجاؤ تصفیہ (۲) انحصار - فرار - موقوف قرار داد -

دارا سد - (ن ۱ - م ۱) رکھنے والا (۲) بڑا بادشاہ (۳) ایران کا مشہور ہنشاہ جو سکندراعظم کے ساتھ لڑتا ہوا مارا گیا -

دارابی - (دا - را - بی) (ن ۱ - م ۱) سٹہ رتی جس سے توب کھینتے ہیں -

دارائی - (دا - را - ای) (ن ۱ - م ۱) ایک قسم کا کپڑا جسے دریائے بھی کہتے ہیں (۲) حکومت (۳) خلائی -

دارچینی - (دا - ری - نی) (ن ۱ - م ۱) ایک درخت کی پھال جو دوا اور سلسے کے طور پر کام آتی ہے -

دار فلفل - (دا - ری - نفل) (ن ۱ - م ۱) دیکھے فلفل دروازے -

دارکش - (ن ۱ - م ۱) سولی پر چڑھانے والا - جلاد -

دارکو - (دا - رو) (ن ۱ - م ۱) دوائی (۲) علاج - درماں - معالجہ - (۳) بارود (۴) شراب -

دارو درمن - (ن ۱ - م ۱) علاج معالجہ - دوا علاج -

داروئے بے ہوشی - (ن ۱ - م ۱) صحت بے ہوشی کی دوا - وہ دوا جسے چنگا کر بے ہوش کرتے ہیں -

داروغلی - داروغائی - (دا - روغ - لی) (دا - روغ - ای) (ن ۱ - م ۱) (۱) داروغہ کے عہدہ کا کام (۲) محاکمت - ہنگامی (۳) افسری سرکاری - (۴) انتظام حکومت -

داروغہ - (دا - روغ) (ن ۱ - م ۱) محافظ - نگران (۲) کسی جماعت کا سردار - ملازموں کا سردار (۳) قاتلہ - سب - ہیکٹر پولیس -

داروغہ آبکاری - (ن ۱ - م ۱) آبکاری کے آلات کا داروغہ - نئے والی اشیاء کی نقل و حرکت - خرید و فروخت کی نگرانی کرنے والا افسر -

دارالاحقرت - (ع ۱۰ - ذ ۱) دوسرا عالم - حاجت -

دارالادب - (ع ۱۰ - ذ ۱) تعلیم گاہ - درس گاہ - یونیورسٹی -

دارالاسلام - (ع ۱۰ - ذ ۱) وہ جگہ جس میں اسلامی سلطنت ہو -

دارالاقامہ - (ع ۱۰ - ذ ۱) رہنے کی جگہ (۲) کالج کا ہوٹل - بورڈنگ ہاؤس

دارالامارت - دارالخلافت - دارالسلطنت - دارالحکومت - (ع ۱۰ - ذ ۱)

پایہ تخت - راہد جانی حکومت کا صدر مقام -

دارالامان - دارالامن - (ع ۱۰ - ذ ۱) وہ مقام جہاں امن ہو -

دارالبعثا - (ع ۱۰ - ذ ۱) ہمیشہ رہنے کا گھر - اگھ جہان - آخرت -

دارالبنوار - (ع ۱۰ - ذ ۱) پاکت کا گھر (۲) دوزخ -

دارالتفخیص - (ع ۱۰ - ذ ۱) شفا خانہ کا وہ مقام جو خاص مریضوں کو دیکھنے کے لیے ہوتا ہے -

دارالجبہ - (ع ۱۰ - ذ ۱) عالم مکانات - اگھ جہان -

دارالخریب - (ع ۱۰ - ذ ۱) وہ ملک جہاں غیر مسلموں کی حکومت ہو اور مسلمانوں کو مذہبی فرائض ادا کرنے سے روکا جائے -

دارالحکومت - دارالسلطنت - (ع ۱۰ - ذ ۱) راہد جانی حکومت کا صدر مقام - پایہ تخت - بادشاہ کے رہنے کی جگہ -

دارالخلافت - دارالخلافت - (ع ۱۰ - ذ ۱) مسلمانوں کے خلیفہ کا صدر مقام خلافت کا مرکزی مقام -

دارالسور - (ع ۱۰ - ذ ۱) خوشی کا گھر (۲) ہشت -

دارالسلام - (ع ۱۰ - ذ ۱) سلامتی کا گھر (۲) ہشت -

دارالشیرخ - (ع ۱۰ - ذ ۱) عدالت - مجہری -

دارالشفاء - (ع ۱۰ - ذ ۱) ہسپتال - شفا خانہ -

دارالشوری - (ع ۱۰ - ذ ۱) دربار عام (۲) جلسہ عام کی جگہ (۳) لوگوں کے ایک جگہ بیٹھ کر باہم مشورہ کرنے کی جگہ -

دارالصحت - (ع ۱۰ - ذ ۱) شفا خانہ صحت گاہ -

دارالصفا - (ع ۱۰ - ذ ۱) صفائی کا گھر مردخانہ کعبہ -

دارالغریب - (ع ۱۰ - ذ ۱) محتال -

دارالحکوم - (ع ۱۰ - ذ ۱) تعلیم گاہ (۲) کالج (۳) یونیورسٹی -

دارالمعمل - (ع ۱۰ - ذ ۱) عمل کی جگہ (مراہ) دنیا -

دارالعوض - (ع ۱۰ - ذ ۱) سزا کی جگہ -

دارالعیار - (ع ۱۰ - ذ ۱) وہ جگہ جہاں کھرا کھوشا رو پیسہ پرکھا جاتا ہے دنیا

دارالغیاث - (ع ۱۰ - ذ ۱) موت کا گھر بزاز دنیا -

دارالھنون - (ع ۱۰ - ذ ۱) کالج - یونیورسٹی -

دارالقرار - (ع ۱۰ - ذ ۱) رہنے کی جگہ (۲) ہشت - جنت - فردوس -

دارالقضا - (ع ۱۰ - ذ ۱) قاضی کی جگہ - عدالت -

دارالقہامہ - (ع ۱۰ - ذ ۱) چمکلا - قبضہ خانہ - کیسوں کے رہنے کا مقام (۲) وہ جگہ جہاں سزا ڈالا جائے -

دارالکتب - (ع ۱۰ - ذ ۱) کتاب گھر - کتب خانہ - لائبریری -

دارالمجنن - (ع ۱۰ - ذ ۱) رنج و ألم کا گھر بزاز دنیا -

دارالمطابعتہ - (ع ۱۰ - ذ ۱) مطالعہ کرنے کی جگہ - پرنٹنگ روم -

داغی اجل کو لبیک کہنا۔ (۱) محاورہ) مرجانا۔ وفات پانا۔
 داغیمہ۔ (داغی، یتہ، رخ۔ ۱) ذمہ (۱) خواہش (۲) مرضی۔ اجارہ۔ دعوے۔ زور
 استماع۔ درخواست۔ ناش۔ استفادہ۔ دعوے کرنے والی
 عورت۔

داغ۔ (دغ۔ ۱) ذمہ (۱) دھبہ۔ نشان۔ پتھی۔ بھائیں (۲) عیب۔ کلنگ کا
 ٹیکا (۳) رنج۔ خم۔ صدرمہ (۴) رشک۔ حمد (۵) نقص۔ عیب (۶) اُردو
 شاعر نواب میرزا خاں دہلوی کا تخلص۔

داغ اٹھنا۔ (۱) محاورہ) (۱) زخم تازہ ہونا (۲) صدرمہ تازہ ہونا۔

داغ بڑھانا۔ (۱) محاورہ) رنج یا صدرمہ برداشت کرنا۔

داغ بڑھانے داغ۔ (دغ۔ ۱) صدے پر صدرمہ۔

داغ بیل۔ (۱) امث) وہ نشان جو شوگر یا روش کھودنے یا عمارت کی
 حدود قائم کرنے کے لیے لگاتے ہیں۔

داغ بیل ڈالنا۔ (۱) محاورہ) کسی کام کی ابتدا کرنا۔ کسی کام کی بنیاد رکھنا۔
 کسی کام کو ایک خاص طریق پر کرنا۔

داغ پر داغ۔ (۱) ذمہ) صدے پر صدرمہ۔

داغ پڑنا۔ (۱) محاورہ) دھبہ پڑنا۔ نشان پڑنا۔

داغ تازہ ہونا۔ (۱) محاورہ) (۱) زخم ہرا ہونا (۲) پُرانا صدرمہ یا دانا۔

داغ جگر۔ (دغ۔ ۱) ذمہ) جگر کا زخم (۲) اولاد کے مرنے کا خم۔ اولاد
 کا بگڑنا۔

داغ جگر کھانا۔ صدرمہ پہننا۔ رنج پہننا۔

داغ چھڑانا۔ (۱) محاورہ) دھبہ مٹانا۔

داغ چھوڑنا۔ (۱) محاورہ) نشان نہ جانا۔

داغ خاطر (دل)۔ (دغ۔ ۱) ذمہ) دل کا داغ۔ خم۔ صدرمہ۔

داغ دار۔ (دغ۔ ۱) نصف) جس پر داغ ہو۔ پھل یا کوئی اور شے (۲) جس پر
 کوئی الزام لگ چکا ہو۔

داغ دیکھنا۔ (۱) محاورہ) صدرمہ اٹھانا۔

داغ دینا۔ (۱) صدرمہ پہننا۔ رنج دینا (۲) لوہے کو گرم کر کے جسم پر نشان
 بنانا (۳) جلانا (۴) نقصان پہننا (۵) توپ۔ بندوق۔ پستول کو سر کرنا۔
 (۶) چٹنی کھانا۔ شکایت کرنا۔

داغ کرنا۔ (۱) محاورہ) گرم کرنا۔ گھارنا۔ کوڑا کرنا۔

داغ کھانا۔ (۱) محاورہ) (۱) رنج اٹھانا۔ صدرمہ اٹھانا (۲) رشک کھانا۔
 (۳) دھبہ لگنا۔ نشان پڑنا۔ (۴) گل کھلانا۔

داغ کھلانا۔ (۱) محاورہ) صدرمہ دینا۔

داغ لگانا۔ داغ لگ جانا۔ (۱) محاورہ) (۱) جلنا بیل جانا
 (۲) بدنام ہونا۔ الزام لگنا (۳) نشان لگنا۔ عیب دار ہونا۔

داغ لے جانا۔ (۱) محاورہ) کسی بات کا رنج مرتے ہوئے ساتھ لے جانا۔

داغ مٹانا۔ (۱) محاورہ) کسی چیز کا نشان دُور کرنا۔

داغ نکلے۔ (۱) ایک کوسا (۲) چوٹ نکلے۔ بھل کر نکلے۔

داغ ہونا۔ (۱) محاورہ) (۱) گھارنا جانا۔ گرم ہونا (۲) نشان ہونا (۳) گرم لوہے
 کا نشان لگنا (۴) رنج ہونا۔ صدرمہ ہونا (۵) رشک ہونا۔

داروغہ پولیس۔ (دغ۔ ۱) ذمہ) کو توال یا تھانہ دار جسے کسی شہر یا تھانہ سے
 متعلقہ علاقہ کا انتظام سپرد ہو۔

داروغہ ٹوپ خانہ۔ (دغ۔ ۱) ذمہ) توپ خانے کا افسر۔ اسے میرا آتش
 بھی کہتے ہیں۔

داروغہ جیل۔ (دغ۔ ۱) ذمہ) قید خانے کا افسر۔ جیلر۔

داروغہ صفائی۔ جینگیوں کا داروغہ۔ وہ افسر جس کے سپرد صفائی
 کا انتظام ہو۔

داری۔ (داری، ۱) ذمہ) (۱) امث) (۱) لوڈی جو لڑائی میں لڑتا آئی ہو۔ باندی
 کینز (۲) فاحشہ عورت۔ چھمال (۳) فارسی لاحقہ جس کے معنی رکھنا۔

دینا وغیرہ ہیں۔ جیسے جہاں داری۔ غنیمت داری وغیرہ۔

داری جہار۔ (دغ۔ ۱) ذمہ) کینز بچہ۔ حرام زادہ۔

دازین۔ (دازین، رخ۔ ۱) ذمہ) دونوں جہان۔ دنیا و آخرت۔

داڑھ۔ (دغ۔ ۱) امث) دایئیں اور بائیں جانب کے ٹرے یا انت جن سے
 انسان اور حیوان خوراک چبانے کا کام لیتے ہیں۔ میچ ڈاڑھ۔

داڑھا۔ (داڑھا، دغ۔ ۱) ذمہ) (۱) بڑی داڑھی۔

داڑھی۔ (دغ۔ ۱) امث) رخساروں اور ٹھوڑی پر اُگنے والے بال۔ ڈاڑھی۔

داس۔ (دغ۔ ۱) ذمہ) (۱) غلام (۲) لوگر۔ ملازم (۳) چیلہ۔

داسا۔ (داسا، دغ۔ ۱) ذمہ) (۱) پتھر یا کھڑکی کا چوڑا اور لمبا ٹکڑا۔ سرول۔

(۲) کھڑکی جو دیوار سے نکلے ہوئی ہو اور چھتر وغیرہ باندھنے کے
 کام آئے۔

داستان۔ (داس۔ تان) (دغ۔ ۱) ذمہ) (۱) قصہ۔ کہانی۔ حکایت۔ طویل
 افسانہ (۲) سرگذشت۔ تاریخ (۳) شہرت۔

داستان چھپڑنا۔ (۱) محاورہ) لمبا قصہ شروع کر دینا۔ سرگذشت سنانا
 شروع کر دینا۔

داستان گو۔ (دغ۔ ۱) ذمہ) قصہ خوان۔ وہ شخص جو قصہ سنانے کا پیشہ
 اختیار کرے۔

داستان میں ٹکڑا لگا دینا۔ (۱) محاورہ) قصہ میں قصہ جوڑ دینا۔

داستانہ۔ (داس۔ تانہ) (دغ۔ ۱) ذمہ) لٹھ پر پہننے کی چیز۔ داستانہ۔

داہمی۔ (دغ۔ ۱) ذمہ) (۱) لوڈی۔ باندی۔ کینز (۲) ملازم۔

داشت۔ (دغ۔ ۱) ذمہ) (۱) خبر گیری۔ نگرانی (۲) رکھ رکھاؤ (۳) تحفہ
 (۴) گھوڑے کی ناش۔ گھار کی بیٹی۔

داشتی۔ (داشت۔ ت۔ نی) (دغ۔ ۱) ذمہ) رکھنے کے لائق۔

داشتہ۔ (داشت۔ تہ) (دغ۔ ۱) ذمہ) (۱) رکھا ہوا۔ رکھی ہوئی شے (۲) خانگی
 پر خور۔ لے نکاحی عورت۔

داشتہ آید نیکار گر چہ باشد سمر مار۔ (دغ) رکھی ہوئی شے کام آئی جاتی
 ہے چاہے وہ سانپ کا سمر ہی کیوں نہ ہو۔

داغی۔ (داغی، رخ۔ صف۔ دغ) (۱) بلانے والا۔ دعوت دینے والا۔

(۲) دعا کہنے والا (۳) وہ شخص جو دوسروں کے لیے دعا کہے (۴)

مدعی۔ مستقیمت (۵) دوسروں کو کسی کام کے لیے اُکسانے والا (۶)

دج۔ موجب۔ بانی (۷) ذریعہ۔ سبب۔ وسیلہ۔

داغا جانا (دوا - غا - جانا) (اُر - مص) (۱) لوہے سے نشان کیا جانا (۲) توپ یا بندوق کا سر ہونا۔ چلایا جانا۔

داغنا - (داغ - نا) (اُر - مص) (۱) چرکا دینا (۲) جلا کر ٹھک دینا (۳) گرم لوہے سے نشان ڈالنا (۴) توپ - بندوق یا پستول چھوڑنا - توپ سر کرنا۔ نیز کرنا (۵) چٹنی کھانا۔

داغنی - (داغ - نی) (ف - ا - مٹ) وہ لولیا لوہے کا وہ ٹپتہ جس سے جانوروں کے بدن پر نشان ڈالا جاتا ہے۔

داغی - (ف - صفت) (۱) داغدار - جسے دار - جلایا ہوا (۲) معیوب عیبدار (۳) سزا یاب - سزا یافتہ - قید کھٹکا ہوا (۴) مشرندہ۔

داغی غلام - وہ غلام جس کے بدن پر لوہے سے داغا ہوا ملکیتی نشان ہو۔
داغ - (داغ - یغ) (ز - صفت) (۱) داغ کرنے والا - دھڑکنے والا - ہٹلنے والا - باز رکھنے والا۔

داغ البلیات - (ز - ا - مذ) بلاؤں کو داغ کرنے والا۔ کنیتاً خدا تعالیٰ۔
داغہ - (داغ - ہ) (ز - صفت) (۱) داغ کرنے والی - خدا کے فضلہ کو دھڑکنے والی قوت۔

داگہ - (ا - مٹ) انگوڑی ایک قسم جس کا رنگ سیاہ یا سرخی مائل سیاہ ہوتا ہے۔

دال - (د - ا - مٹ) ڈالا ہوا اناج جو سالن کے طور پر پکایا جاتا ہے جیسے جتنے کی دال (۲) کھڑنڈ - زخم کا انگوڑ (۳) آتش شیشہ کا وہ عکس جس سے آنگ لگتی ہے۔

دال بندھنا - (۱) کھڑنڈ بندھنا (۲) شعلوں کا ایک جگہ اکٹھا ہونا۔
دال جو تیلوں میں بننا - (۱) محاورہ) لڑائی ہونا۔ تھکا نصیبی ہونا۔ خانگی جھگڑا ہونا۔

دال چپاتی - (ا - مٹ) (۱) دال روٹی (۲) بچوں کو ڈرانے کا ایک فرضی نام
دال چپو ہونا - (۱) محاورہ) (۱) گھم گھم ہونا - باہم لپٹنا (۲) دو پیشگوئوں کا باہم لپٹ کر گر جانا۔

دال خورد - (۱) مذ) دال کھانے والا۔ (کلمہ تخییر) بزدل۔

دال دلایا - (۱) مذ) (۱) معمولی خوراک - غریبوں کا سا کھانا دکھڑا کھانا (۲) ماتحت - دکھی سوچی روٹی (۳) تھوڑا سا۔

دال دلیا ہونا - (۱) محاورہ) کچھ نہ کچھ کام بن جانا۔

دال روٹی - (۱) محاورہ) (۱) عزیزانہ خوراک (۲) رزق - روزی۔

دال روٹی سے (آسودہ) خوش - (صفت) آسودہ حال - خوش حال۔

دال روٹی کر دینا - (۱) محاورہ) ہر وقت استعمال کر کے بے وقت کر دینا۔

دال روٹی کھاتے ٹوٹنا تو بھانڈ میں پڑے - (۱) محاورہ) اگر کفایت شعاری کے باوجود گدازار نہیں ہوتا تو مر جانا بہتر ہے۔

دال فے عین - (۱) مٹ) - داغ - دھڑکنا - ہونکے ساتھ۔

دال گلنا - (۱) محاورہ) (۱) دال پک جانا (۲) کامیاب ہونا - کام بن جانا۔

(۳) کسی جگہ دخل ہونا (۴) بناہ ہونا۔

دال میں کچھ کالا ہے - کچھ خرابی ہے - شک و شبہ کی بات ہے۔
مشکوک معاملہ ہے۔

دال نہ گلنا - (۱) محاورہ) کامیابی نہ ہونا۔

دال - (ز - صفت) (۱) دلالت کرنے والا (۲) راہ دکھانے والا (۳) معنی خیز پر مضمی (۴) علامت - نشان۔

دالان - (دا - لان) (ف - ا - مذ) بڑا اور لمبا کمرہ جس میں محراب دار دروازے ہوتے ہیں۔

دالان در دالان - دوہرا دالان - آگے بچھے دو برابر کے کمرے۔

دام - (د - ا - مذ) (۱) درمی - جھیل - کوڑی (۲) گنڈا - پیسے کا پچیسواں جو بیسواں حصہ - چار کوڑیاں (۳) قیمت - مول - خرچ - بھاؤ (۴) نقدی - رقم دولت - روپیہ۔

دام آگے کام - (۱) مش) روپیہ بہت نامدہ مند ہوتا ہے۔

دام اٹھانا - (۱) محاورہ) (۱) خرچ کرنا (۲) امانت پونے قیمت لے لینا۔

دام اٹھنا - (۱) محاورہ) چیز بک جانا - قیمت حاصل ہونا۔

دام بھر پانا - (۱) محاورہ) قیمت وصول ہونا - روپیہ وصول ہونا۔

دام بھرنا - (۱) محاورہ) تاوان دینا - قیمت ادا کرنا۔

دام پیٹ جانا - (۱) محاورہ) قیمت طے ہو جانا۔

دام پھیر لینا - (۱) محاورہ) قیمت واپس لے لینا۔

دام پچھانا - (۱) محاورہ) بھاؤ پھیرنا - قیمت طے کرنا۔

دام دام - کوڑی - کوڑی - پیسہ - پیسہ - کل رقم۔

دام دام ادا کیا - کل رقم ادا کی۔

دام دیجیے کام لیجیے - (۱) مش) جو روپیہ خرچ کرتا ہے۔ اس کا کام ہو جاتا ہے۔

دام دینا - (۱) محاورہ) قیمت ادا کرنا - مول ادا کرنا۔

دام گرائے کام - (۱) مش) جو روپیہ خرچ کرے اسی کا کام ہوتا ہے۔

دام کھرے کرنا - (۱) محاورہ) نقد قیمت وصول کرنا۔

دام لگانا - (۱) محاورہ) (۱) قیمت مقرر کرنا (۲) رقم صرف ہونا۔

دام - (ف - ا - مذ) (۱) حال - پھندا (۲) گھاس کھانے والے صحرائی چوپائے۔

(۳) روپے کا چالیسواں حصہ - دواؤں کے تولنے کا ایک وزن (۴) ایک قدیم سکہ - (۵) دھوکا - فریب۔

دام پچھانا - (۱) محاورہ) پھندا لگانا - حال لگانا۔

دام پلا - (ف - صفت) مصیبت کا پھندا - مصیبت۔

دام پلا سے رل پائی پانا - (۱) محاورہ) مصیبت سے چھٹکارا حاصل کرنا۔

دام ترویر - کمر کا جال - فریب کا پھندا۔

دام میں آنا - (۱) محاورہ) فریب کھانا - دھوکا کھانا۔

دام میں پھنسنا - دام میں لانا - حال میں پھنسنا - بس میں لانا۔

دام و کو - (ف - مذ) بڑے اور درندے۔

دامے - درمے - قدمے - سٹخنے - (ف - متولد) ہر طرح امداد کرنا - روپیہ پیسہ - جان اور زبانی ہر طریقہ سے مدد کرنا۔

دامے - (ز - صفت) ہمیشہ رہے - دائم رہے۔

دام اقبال گد - (ز - صفت) کلمہ دہا، اس کا اقبال ہمیشہ رہے۔

دام ابر کا تہ - (کلمہ دہا) اس کی برکتیں ہمیشہ رہیں۔

دامن چھٹا کرنا - (۱) محاورہ (۱) دامن کو گردوغبار سے صاف کرنا (۲) کچھ پاس نہ رکھنا۔ خالی ہاتھ ہونا (۳) ماحیہ سے پاک ہونا (۴) آزاد ہونا۔ تعلقات چھوڑ دینا۔

دامن چھٹک کر چلے جانا۔ دامن چھڑا کر جانا۔ (۱) محاورہ (۲) ناراض ہو کر چلے جانا۔ پزار ہو کر چلے جانا۔

دامن چھٹک کر کھڑا ہونا۔ (۱) محاورہ (۲) نفرت کرنا۔ بیزار ہونا۔

دامن چھٹکنا۔ (۱) محاورہ (۲) انگ ہونا۔ تعلق ترک کرنا۔

دامن چھلنا۔ دامن نکلنا۔ دامن پھٹ جانا۔

دامن چھٹنا۔ چھوٹنا۔ (۱) محاورہ (۲) آزاد ہونا۔ تعلق نہ رہنا۔ بری الذمہ ہونا (۳) علمبرہ ہونا۔

دامن چھڑانا۔ (۱) محاورہ (۲) پھینچا چھڑانا۔ قطع تعلق کرنا۔

دامن دار۔ (۱) صفت (۲) چوڑا (۳) دامن والا۔

دامن دراز۔ (۱) صفت (۲) بے وقوف۔ احمق۔

دامن دولت۔ (۱) مذ (۲) بادشاہ یا امیر کا سہارا یا پناہ

دامن دھونا۔ دامن پاک کرنا۔ بدنامی دور کرنا۔

دامن سمیٹنا۔ سمیٹنا۔ (۱) محاورہ (۲) دامن کو ہاتھ سے اکٹھا کرنا (۳) کنارہ کشی کرنا۔

دامن سے بندھنا۔ (۱) محاورہ (۲) کسی کا ہورہنا (۳) کسی سے شادی ہوجانا۔

دامن سے لگا رہنا۔ (۱) محاورہ (۲) ہر وقت ساتھ رہنا (۳) کسی سے وابستہ رہنا (۴) کسی کا حاجت مند رہنا۔

دامن سے منہ چھپانا (ڈھانکنا)۔ (۱) محاورہ (۲) شرمانا۔ شرمندہ ہونا۔

دامن شب۔ شب کا آخری نصف حصہ۔

دامن صبر۔ (۱) صفت (۲) صبر صبر کی طاقت۔

دامن قیامت۔ دامن محشر۔ (۱) مذ (۲) قیامت کا میدان۔

دامن کشال۔ (۱) صفت (۲) فخریہ انداز سے چلتے ہوئے (۳) ٹھکراتے ہوئے۔ چھوڑتے ہوئے۔

دامن کمر سے باندھنا۔ (۱) محاورہ (۲) کام کرنے کے لیے آمادہ ہوجانا۔

دامن کوہ۔ (۱) مذ (۲) پہاڑ سے ظاہر میدان یا وادی۔

دامن کھینچنا۔ (۱) محاورہ (۲) روکنا۔ مزاحم ہونا۔ جانے نہ دینا۔

دامن کی ہوا دینا۔ (۱) محاورہ (۲) کسی بے ہوش کو دامن سے بنگھنا کرنا۔

دامن گردانا۔ (۱) محاورہ (۲) دامن اکٹھا کرنا (۳) توجہ ہٹا لینا۔

دامن گیر۔ (۱) صفت (۲) مدد جانے والا (۳) حمایت چاہنے والا (۴) مستفیض۔ مدعی (۵) مزاحم۔ روکنے والا (۶) چپ کرانے والا۔

دامن گیر ہونا۔ (۱) محاورہ (۲) مزاحم ہونا۔ معصوم ہونا (۳) سر ہونا پھینچا کرنا (۴) گردیدہ ہونا (۵) دادخواہ ہونا (۶) تنگ کرنا۔ دکھ دینا۔

دامن گیری۔ (۱) صفت (۲) حمایت چاہنا۔ مدد چاہنا (۳) دوستی۔ محبت (۴) استغاثہ۔ دعوئے۔

دامن لینا۔ (۱) محاورہ (۲) سہارا لینا۔ پناہ لینا۔

دامن محشر۔ (۱) مذ (۲) قیامت کا میدان۔

دامن میرم۔ (۱) مذ (۲) گناہ ہے عصمت سے۔

دامن نکلنا۔ (۱) محاورہ (۲) دامن نکلنا۔ اس کا سایہ ہمیشہ رہے۔

دامن نکلنا۔ (۱) محاورہ (۲) دامن نکلنا۔ اس کی عنایات ہمیشہ رہیں۔

دامن نکلنا۔ (۱) محاورہ (۲) دامن نکلنا۔ اس کا سایہ ہمیشہ قائم رہے۔

دامن (۱) مذ (۲) ف (۳) مذ (۴) بیٹی کا شوہر۔ جوانی۔

دامن (۱) مذ (۲) ف (۳) مذ (۴) انگریز کے یا قبلا کا وہ حصہ جو نیچے لگتا رہتا ہے (۵) کور۔ کنارہ۔ لب۔ حاشیہ (۶) تیلیٹی۔ پہاڑ کے نیچے کی زمین۔ پائین کوہ کا علاقہ۔

دامن (۱) مذ (۲) ف (۳) مذ (۴) دامن (۵) جہاز کا پال (۶) فارسی لاحقہ جو آہل یا تلو کے معنوں میں آتا ہے۔ جیسے پاک دامن۔ تردامن (۷) فارسی لاحقہ جو کورہ کے معنوں میں آتا ہے جیسے دامن کورہ۔ دامن صحرا۔ دامن دل۔ دامن دولت وغیرہ۔

دامن آلودہ۔ (۱) صفت (۲) گناہ گار مجرم۔

دامن انگینا۔ دامن انگ جانا۔ (۱) محاورہ (۲) گرفتار ہوجانا پھینس جانا۔

دامن اٹھا کر چلنا۔ (۱) محاورہ (۲) آہل بنھال کر چلنا۔ دامن سمیٹ کر چلنا۔

آہل اور چلنا۔

دامن اقبال۔ (۱) صفت (۲) دامن بھٹکتے ہوئے (۳) غمزہ سے چلتے ہوئے ناز سے چلتے ہوئے (۴) بے تعلق۔ تارک الدینا۔

دامن اٹھنا۔ (۱) محاورہ (۲) کسی چیز میں دامن انگ جانا (۳) پابند ہوجانا۔ (۴) چھڑنے میں پھینس جانا۔

دامن امید۔ (۱) صفت (۲) مذ (۳) خواہش۔ آرزو۔

دامن امید گو بہر آرزو سے مالا مال ہونا۔ (۱) محاورہ (۲) آرزو پوری ہونا امید برآنا۔

دامن بیچانا۔ (۱) محاورہ (۲) انگ رہنا۔ جلیغہ کی اختیار کرنا (۳) بے تعلق رہنا (۴) سلامت زوی۔

دامن بدندال۔ (۱) صفت (۲) عاجز۔ بے جاہ۔

دامن بھرننا۔ (۱) محاورہ (۲) بھولی بھرننا (۳) خراب حاصل کرنا۔

دامن پاک ہونا۔ (۱) محاورہ (۲) معصوم ہونا۔ بے گناہ ہونا۔

دامن پردھتا لگنا۔ (۱) محاورہ (۲) الزام لگنا۔

دامن پر فرشتے تمنا ز پڑھتے ہیں۔ (۱) مثل (۲) بہت پاک دامن ہے بہت نیک ہے۔ بہت بارش ہے۔

دامن پسارنا۔ دامن پھیلانا۔ (۱) محاورہ (۲) سوال کے لیے ہاتھ پھیلانا۔ مانگنا

دامن پکڑنا۔ دامن لینا۔ (۱) محاورہ (۲) مانگنا (۳) تفتاح کرنا (۴) پناہ میں آنا۔ سہارا لینا (۵) روکنا۔ تعرض کرنا۔

دامن پھیلانا۔ (۱) محاورہ (۲) پلو آگے کرنا (۳) مانگنا۔

دامن تار تار کرنا۔ (۱) محاورہ (۲) دھجیاں اڑانا۔

دامن تر۔ (۱) صفت (۲) گناہ گار۔ مجرم۔

دامن تلے چھینا نا (ڈھانکنا)۔ (۱) محاورہ (۲) پناہ میں لینا (۳) عیب ڈھانکنا (۴) حفاظت کرنا۔

دامن تھام لینا۔ روکنا۔

دامن مٹر گال - (ف - مذ) پیکوں کا آخری حصہ۔ سامنے والی نوکیں۔
 دامن مقصود - (ف - مذ) ارادہ، مقصد کا دامن سے استعارہ۔
 دامن میں پھسا لینا - (مجاورہ) (ا) پناہ دینا (۲) ہسار دینا۔
 دامن میں لہو تلگنا - (ا) دامن کا خون آلود ہونا (۲) قاتل پر قتل
 ثنابت ہونا۔
 دامن ناز کو سنبھالنا - (مجاورہ) غمزدوں کو زیادہ کرنا۔ عشوہ گری میں
 زیادتی کرنا۔
 دامن نہ چھوڑنا - (مجاورہ) ہر وقت ساتھ رہنا۔ ساتھ ساتھ پھرنا۔
 دامنی - (دامنی، دمن) (ف - ا) (مٹ) (ا) وہ کپڑا جو گھوڑے کے پیٹھے پر
 پڑا رہتا ہے۔ زمین پوش (۲) باریک چادر جو عورت کے جنازے
 پر ڈالتے ہیں (۳) فارسی لائق جیسے پاکدامنی۔ تردامنی (۴) عورت
 کی پوشاک کا ایک حصہ۔ نقاب۔ چھتر (۵) ایک زیور جو عورتیں ہاتھ
 پر پہنتی ہیں۔
 دامنی - (دامنی، دمن) (نی، دہ) (مٹ) بجلی۔ برق۔ صاعقہ۔ شاعر۔ کوی۔
 دان - (د - مذ) (ا) نذر، خیرات (۲) نذرانہ، چندہ، عظیمہ (۳) محصول (۴)
 فارسی لائق جو کلہ ظرف کے طور پر استعمال ہوتا ہے معنی گھر، جگہ، مقام، مکان یا
 جیسے پانڈان۔ نیک دان وغیرہ (۵) جانے والا۔ جیسے نکتہ دان۔ زبان دان۔
 دان کن - (د - مذ) پلیمہ۔ صدف وغیرات۔
 دان ڈتار - (د - مذ) دان کرنے والا۔ خیرات کرنے والا۔
 دان پرن - (د - مذ) نیا صنی۔
 دان ڈھیزل - (د - مذ) ڈھیزل۔
 دان دینا - (مص - مرکب) پرن کرنا۔ خیرات کرنا۔
 دانا - (د - تا) (ف - ص) عقل مند۔ ہوشیار۔ دانش مند۔ جانتے والا۔
 دانا بینا - (ف - ص) جانتے والا۔ دیکھنے والا۔ عاقل۔ ہوشیار۔
 کار آزمودہ۔
 دانا جلد بازی نہیں کرتے - (ایش) عقلمند آدمی کسی کام میں جلد بازی
 سے کام نہیں لیتے۔
 دانا دامن نادان دوست سے بہتر ہے - (ایش) بے وقوف
 دوست کے باتوں کو بے نقصان سمجھتا ہے۔
 دانا دل کی ڈور بلا - (مش) عقلمند انسان مصیبت میں نہیں پھینکتے۔
 دانا بیان فرنگ - (ف - ص) یورپ کے عقلمند آدمی۔
 دانالی - (ف - ا) (مٹ) عقل۔ دانش۔ سمجھ بوجھ۔
 دانائی ٹھیکنا - (مجاورہ) عقلمندی کا ظہور ہونا۔ ہوشیاری کا ظہور ہونا۔
 دانست - (د - مذ) (ا) دندان۔ چبانے اور کاٹنے کا عضو (۲) میل۔ بنبت
 خواہش۔ قصد۔ ارادہ (۳) دندانہ۔ دانستہ۔
 دانست بٹھا دینا - (مجاورہ) عاجز کر دینا۔ مجبور کر دینا۔
 دانست بجانا - (مص - مرکب) دانتوں سے آواز نکالنا۔
 دانست بجانا - (مجاورہ) دانت کڑکڑانا (۲) دانتوں کا باہم کڑکڑانا
 دانست بچھڑ جانا۔ دانتوں کا جکڑ جانا۔ بے ہوش ہو جانا۔
 دانست پریشان نہ ہونا - (مجاورہ) ہنایت عزیز ہونا۔ مفلس ہونا۔

فاقون مرننا۔
 دانت پلینا - (مجاورہ) ہنایت غصہ ہونا۔ غصہ دکھانا (۲) اوپر اور
 پیچھے کے دانتوں کو آگے میں رکھنا۔
 دانت تلے انگلی دبانا - (مجاورہ) (ا) حیران ہونا (۲) تعجب کرنا۔
 (۳) افسوس کرنا۔
 دانت تلے چلیچھر دینا - (مجاورہ) ٹھہرنا۔ تھل کرنا۔ تامل کرنا۔ صبر کرنا۔
 دانت تلے ہونٹ دبانا - (مجاورہ) غصہ میں ہونا۔ غصہ کرنا۔
 دانت توڑنا - (مجاورہ) (ا) دانت اکھاڑنا۔ دانت کے ٹکڑے کر دینا۔
 (۲) عاجز کرنا۔ کسی کام کا نہ رکھنا۔
 دانت تیز کرنا - (مجاورہ) لالچ کرنا۔ حرص کرنا (۲) ایذا رسانی کا قصد کرنا
 دانت ٹوٹنا - (مص - مرکب) (ا) دانت کا گر جانا۔ دانت کا شکستہ ہو جانا
 (۲) پولا ہو جانا۔
 دانت ٹوٹے، ٹکڑے گئے اور پیٹھ بوجھ نہ لے م - (ایش) بوڑھا ہو
 ایسے بوڑھے بیل کو کون باندھ جس سے جانے پر جب اس سے
 کسی مفاد کی توقع نہ ہو تو کوئی اسے منہ نہیں لگاتا۔
 دانت بھڑھانا - (مجاورہ) دانت ٹوٹ جانا۔ دانت گرنا۔
 دانت چوسنے کی نذر کر دینا - (مجاورہ) دانت گر جانا۔ بچوں کی ہات
 کیتے ہیں۔
 دانت دکھانا - (مجاورہ) (ا) ڈرانا (۲) عظمت کا ظہور کرنا۔ شہین مارنا۔ اکڑنا
 (۳) کھپائی ہنسی ہنسانا۔
 دانت دیکھنا - (مجاورہ) عمر کی شناخت کرنا۔
 دانت رکھنا - (مجاورہ) (ا) کسی چیز کی خواہش کرنا۔ کسی چیز کو لینے کا ارادہ
 رکھنا (۲) بدلہ یا انتقام لینے کا ارادہ رکھنا۔
 دانت رسللانا - دانتوں میں ہلکا سا درد ہونا۔
 دانت سے دانت بجانا - (مجاورہ) سردی یا لڑنے سے دانتوں کا
 آپس میں ٹکڑا کرنا۔
 دانت سے زبان کاٹنا - (مجاورہ) کوئی بات کہہ کر پھینکانا۔
 دانت کاٹی روٹی - (ایش) بے حد دوستی۔
 دانت کٹکٹانا - دانت کچکچکانا - (مجاورہ) (ا) ہنایت خفا ہونا (۲)
 غصے سے دانت پینا۔
 دانت کرکرے ہونا - (مجاورہ) (ا) کرکرے ہٹ کے سبب دانتوں کا
 کام نہ دینا (۲) عاجز ہونا۔ پار ماننا۔ زک اٹھانا۔
 دانت کریدنے کو ترکانہ نہ پینا - (ایش) گھر میں کچھ نہ رہنا۔ سب
 اسباب جاتا رہنا۔
 دانت کڑکڑانا - (مجاورہ) دیکھنے دانت بجانا۔
 دانت گند ہونا - (مجاورہ) کسی کاٹنے والی شے کے دندانوں کا سخت
 چیز کو کاٹنے کے قابل نہ رہنا۔
 دانت کھٹے کر دینا - (مجاورہ) عاجز کر دینا۔ ہمت توڑ دینا۔
 دانت کھٹے ہونا - (مجاورہ) ہمت لارنا۔ عاجز ہونا۔ جی جھوٹ جانا۔
 دانت لگکانا - (مجاورہ) (ا) زخم لگانا۔ ہنسنا مارنا (۲) لالچ کرنا تاکہ لگنے نہ
 دانت لگکانا - (مجاورہ) ہنایت عزیز ہونا۔ مفلس ہونا۔

دانت مارنا۔ ۱۔ محاورہ (۱) کاٹنا (۲) بھانجی مارنا۔ کسی شے کا حاصل کر لینا۔ قابو میں لانا۔

دانت نکالنا۔ ۱۔ محاورہ (۱) اشرمندہ ہو کر ہنسنا (۲) بے موقعہ ہنسنا (۳) جوتی کے پھوسڑے نکل آنا۔ ٹانگے ٹوٹ جانا (۴) منت سماجت کرنا۔ بجز غائب کرنا (۵) بچوں کے لیے، دانت پیدا کرنا۔

دانت نکلنا۔ بچے کے دانت نمودار ہونا۔

دانت ٹکوسنا۔ ۱۔ محاورہ (۱) دانت نکالنا۔ دندے کا ٹھٹھا یا عاجزی سے دانت دانت نہ لگانا۔ ۲۔ محاورہ (۲) ثابت نکل جانا۔ بغیر چبائے نکل جانا۔

دانت ہونا۔ ۱۔ محاورہ (۱) کسی چیز کی بہت خواہش ہونا (۲) صدر پہنچانے کا ارادہ ہونا (۳) دانتوں کا موجود ہونا (۴) تاک میں ہونا۔ (۵) عداوت ہونا۔

دانتوں اُنکلی کاٹنا۔ ۱۔ محاورہ (۱) ناراض ہونا۔ غصے ہونا (۲) افسوس کرنا تاسف کرنا (۳) حیران ہونا۔ متوجہ ہونا۔

دانتوں پیر ہونا۔ ۱۔ محاورہ (۱) بچے کا دانت نکلنے کے قریب ہونا۔

دانتوں نیلے انگلی داہنا (کاٹنا)۔ ۱۔ محاورہ (۱) تعجب ہونا۔ حیرت میں آنا۔

دانتوں چڑھنا۔ ۱۔ محاورہ (۱) کوکے سُننا (۲) ٹوک میں آنا (۳) ہوجب رشک ہونا۔

دانتوں سے پکڑنا۔ ۱۔ محاورہ (۱) سخت کبوسی کرنا (۲) حصول مطلب کے لیے بے حد کوشش کرنا۔

دانتوں سے پسینہ آنا۔ ۱۔ محاورہ (۱) مشکل کام کرنے سے عاجز آنا۔

دانتوں سے زمین پکڑنا۔ ۱۔ محاورہ (۱) اپنی جگہ سے نہ ہلنا۔ زمین کو مضبوط پکڑنا۔

دانتوں سے کوڑھی اُکھٹانا۔ ۱۔ محاورہ (۱) سخت کبوسی کرنا۔

دانتوں سے ہاتھ کاٹنا۔ ۱۔ محاورہ (۱) سخت افسوس کرنا (۲) سخت غصے میں ہونا۔

دانتوں سے ہونٹ چباننا۔ افسوس حیرت یا غصے میں ہونا۔

دانتوں کا جوکا۔ ۱۔ مذ (۱) بچے کے اگلے چار دانت جو ایک جیسے جوتے ہیں دانتوں کے نیچے زبان دباننا۔ ۱۔ محاورہ (۱) کہتے کہتے زبان روک لینا حیرت۔ تعجب اور افسوس ظاہر کرنا۔

دانتوں میں انگلی دباننا۔ ۱۔ محاورہ (۱) حیرت۔ افسوس۔ گھبراہٹ یا شرم ظاہر کرنا۔

دانتوں میں تینکا لینا۔ ۱۔ محاورہ (۱) عاجزی کرنا (۲) امان مانگنا۔ (۳) اطاعت کرنا۔

دانتوں میں زبان کی طرح رہنا۔ ۱۔ محاورہ (۱) دشمنوں میں رہ کر بچے رہنا۔

دانتا۔ (دال۔ تا) (س۔ ا۔ مٹ) فیاضی۔ داد و دہش۔ دان پُر (۵۔ ا۔ مذ) دہانہ۔ خار۔

دانتا بابے گھر پڑے اور کھانڈا بابے رُن پڑے۔ (مثل)

زبان درازی سے گھر میں لڑائی رہتی ہے اور ہنسی مذاق میں دوستوں سے دشمنی ہوجاتی ہے۔

دانتا کلکل۔ (۵۔ ا۔ مٹ) (۱) جھگڑا۔ تکرار۔ لڑائی۔ مٹنا۔ تصفیہ۔ مذاق۔

دنگ فساد (۲) کج بھٹی۔ نکتہ چینی۔ حرف گیری۔ عیب جوئی۔

دانتین۔ (دان۔ تن) (۵۔ ا۔ مٹ) مسواک۔

دانتو۔ (دال۔ تو) (۱۔ ۵۔ مذ) آگے کو نکلے ہونے یا بڑے بڑے دانتوں والا فرد۔

دانتو۔ (دال۔ تو) (۵۔ ا۔ مٹ) آگے کو نکلے ہوئے یا بڑے بڑے دانتوں والی عورت۔

دانتو۔ (دانت۔ ۱۔ ۵۔ مذ) پھکڑے کے پھلے حصے میں اسباب رکھنے کی جگہ۔

دانتی۔ (دال۔ تی) (۵۔ ا۔ مٹ) (۱) بیسی۔ دانتوں کا جوکا (۲) درانتی یعنی گھاس کاٹنے کا اوزار۔ ہنسیا (۳) آرسے کا دندانہ۔

دانٹے۔ (دال۔ تے) (۵۔ ا۔ مذ) دندانے۔

دانٹے پڑ جانا۔ دندانے پڑ جانا۔ دھار گر جانا۔

دانٹیا۔ (دال۔ تے) (یا۔ ۵۔ ا۔ مذ) (۱) ایک قسم کا ننگ جو تبا کو کو تیز کرنے کے کام آتا ہے (۲) دانتوں کا مین۔

دانست۔ (وا۔ نست) (۵۔ ا۔ مٹ) (۱) دانش۔ واقفیت۔ علم شناست سمجھ۔ ادراک۔

دانستہ۔ (وا۔ نس۔ تہ) (ف۔ صفت) جانا ہوا۔ بچانا ہوا۔ جان بوجھ کر۔

دانش۔ (وا۔ نش) (ف۔ ا۔ مٹ) علم عقل۔ دانائی۔ حکمت۔ ادراک۔

دانش مند۔ (ف۔ صفت) عالم۔ فاضل۔ عاقل۔ ہوشیار۔ سمجھ دار۔ زیرک۔

دانش مندانہ۔ (ف۔ صفت) عقل مندوں کی طرح۔

دانش مندی۔ (ف۔ ا۔ مٹ) دانائی عقل مندی۔ فہم و فراست حکمت۔

دانش ور۔ (ف۔ صفت) عقل مند۔ اہل علم۔ ذہین۔ (انگ (Intelligent))

دانش وری۔ (ف۔ ا۔ مٹ) عقل مندی۔ دانائی۔ حکمت۔

دانگ۔ (ف۔ ا۔ مذ) (۱) پھرتی کا وزن۔ مشقال یا دروم کا چوتھائی حصہ (۲) طرف بہمت۔ جانب (۳) کسی شے کا بیٹھا حصہ (۴) حصہ ٹکڑا (۵) ایش (۱) پہاڑی چٹان (۲) چوٹی (۳) دریا کا آؤٹ کنا رہ۔

دانوری۔ (دال۔ وری) (۵۔ ا۔ مٹ) وہ رسی جس سے غلہ اڑاتے وقت نیل باندھتے ہیں۔

دانہ۔ (وا۔ نہ) (ف۔ ا۔ مذ) (۱) اناج۔ غلہ (۲) بیج۔ تخم (۳) گول ٹکڑا۔ (۴) انگوٹیا یا گول پھیل (۵) چھوٹی پینسی (۶) چھوٹے اور گول کنکو۔ پتھر (۷) پالنے۔ چھوٹی چھوٹی گولیاں (۸) خشکاش (۹) چنا (۱۰) کچی وغیرہ کا ذرہ۔

دانہ اُکھٹانا۔ ۱۔ محاورہ (۱) پرندوں کا دانہ چُکن۔

دانہ اُکھٹنا۔ ۱۔ محاورہ (۱) پرندہ کا پوٹے سے دانہ نکالنا۔

دانہ پھکانا۔ ۱۔ محاورہ (۱) پرندوں کو کولنے کے لیے حال کے نیچے دانہ ڈالنا۔

دانہ بدلنا۔ ۱۔ محاورہ (۱) پرندوں کا ایک دوسرے کو منہ سے دانہ نکال کر کھلانا۔

دانے پر لگانا۔ (۱۔ محاورہ) اجنبی پر بزدلو دانہ کھلا کر رام کرنا۔
 دانے دانے پر بھر سے۔ (دیشل) (۱) جو دانہ جس کی قسمت کا ہو اسی کو
 ملتا ہے (۲) جو رزق تقدیر میں لکھا ہو وہی ملتا ہے۔
 دانے دانے کو محتاج۔ (دیشل) بالکل مفلس۔
 دانے کا آڑ کر پہنچنا۔ (۱۔ محاورہ) قسمت میں لکھے ہوئے رزق کا ملنا۔
 دانے کے ساتھ کھن لیس جانا۔ (۱۔ محاورہ) امیر کے ساتھ کسی غریب
 کامصیبت میں بچھن جانا۔

دانے کو ٹالے سواری کو پا دے۔ (۱۔ بشل) کھانے پینے کو تیار کرنا کام
 سے جی چڑانا۔

دانے بائیکا۔ (۱۔ محاورہ) بھیک مانگنا۔
 دانے نہ پڑ جانا۔ (۱۔ محاورہ) آب و دانہ ختم ہو جانا۔
 دانے نہ لگانا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) پھوٹی پھوٹی پھیناں نکلنا (۲) چپک نکلنا۔
 دانے نہ ہونا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) کھانے پینے کے لیے کچھ نہ ہونا (۲) سخت
 غریب ہونا۔

دانے زاو۔ (۱۔ محاورہ) کنجوس (ق)۔
 داوا۔ (۱۔ محاورہ) مذہب اتا کا خاندن۔
 داوان۔ (ق) (۱۔ مذ) (۱) گود (۲) جوڑا۔

داؤر۔ (۱۔ محاورہ) (۱) خدائے تعالیٰ (۲) منصف یا عادل بادشاہ۔
 حاکم یا نزع (۳) علاج۔ (۴) مخالفت متقابل۔
 داؤر محشر۔ (ق) (۱) قیامت کے دن انصاف کرنے والا۔ (۲) خدا تعالیٰ:
 داؤر کی۔ (۱۔ محاورہ) (ق) (۱) بادشاہت سلطنت (۲) عدالت
 انصاف (۳) عدالت کا حکم (۴) مقدمہ۔ جھگڑا۔ دعوے۔
 عدالت میں۔

داہ۔ (۱۔ محاورہ) (۱) جلانا۔ (۲) داغ دینا (۳) آگ۔
 اندرونی گرمی۔ چلنے کا احساس۔ جلن (۵) رشک۔ حسد۔
 داہ دینا۔ (۱۔ محاورہ) (۲) مڑ دے کو جلانا۔

داہنا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) صاف سیدھا ہاتھ۔ (۲) بائیں۔ راست۔
 داہنا قدم لینا۔ چالاک اور شرارت کا قائل ہونا۔ تعظیم کرنا۔ (دیشل)
 داہنا دھوائے بائیں کو اور بائیں دھوائے داہیں کو۔ (دیشل) ایک
 دوسرے کی مدد کرنی چاہیے۔

داہنہ لاکھنا کھانا حرام ہے۔ (۱۔ محاورہ) ایک قسم جو کسی کام کے کرنے
 کے لیے کھائی یا کھلائی جائے۔
 داہنی۔ (۱۔ محاورہ) (۱) صاف سیدھی متعلق یہ جانب۔ راست۔ دائیں۔
 داہنی آنکھ پھڑکنا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) داہنی آنکھ کی رگوں کا حرکت کرنا (۲) مرد
 کے لیے اچھا اور عورت کے لیے بُرا شگون (۳)
 داہر۔ (۱۔ محاورہ) (۱) چلنے والا (۲) پھرنے والا۔ دورہ کرنے والا
 (۳) زیر تجویز۔ درپیش۔

داہر کرنا۔ (۱۔ محاورہ) چلانا۔ سلسلہ شروع کرنا۔ رجوع کرنا۔
 داہر دوسرا۔ (۱) پھرنے والا (۲) اپنے حلقہ اثر پر چھٹا جانے والا۔ (دیشل)۔
 (۳) نافذ۔ جاری۔

دانہ بدلی۔ (۱۔ محاورہ) (۱) پرندوں کا ایک دوسرے کو دانہ کھلانا (۲) دونوں
 کا باہم اختلاف۔

دانہ بدلی کرنا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) پیار کرنا۔ محبت کرنا (۲) بوس و کسا کرنا۔
 دانہ بندری۔ (۱۔ محاورہ) کھڑی کھیتی کی پیداوار چھٹنا۔ پیمانہ کرنا۔ تہیجہ لگانا
 دانہ بھرا نا۔ (۱۔ محاورہ) پرندوں کا اپنے بچوں کے منہ میں دانہ دینا۔ چوگا دینا۔
 دانہ پانی۔ (۱۔ مذ) (۱) آب و دانہ۔ رزق (۲) قسمت۔ نصیب (۳) پردہ پوش
 قیام۔

دانہ پانی اٹھنا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) رزق ختم ہونا (۲) آگاہ سفر ہونا۔ سفر پر مجبور ہونا
 دانہ پانی حرام ہونا۔ (۱۔ محاورہ) کھانا پینا چھوٹ جانا۔

دانہ پانی کھینچ لایا ہے۔ (۱۔ دیشل) رزق مقدر میں تھا مجبوراً آنا ہے۔
 دانہ پانی کے لاکھ ہونا۔ (۱۔ محاورہ) قسمت کے اختیار میں ہونا۔
 دانہ پڑنا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) بوئے ہوئے اناج میں بیج پیدا ہونا (۲) آگ سے
 پک کر کسی چیز کا دانہ دانہ ہو جانا۔

دانہ تک حرام ہونا۔ (۱۔ محاورہ) کچھ نہ کھانا۔
 دانہ جمانا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) جال پھانا۔ پھندا لگانا۔ دھوکہ دینا (۲) بونا۔
 بیج ڈالنا۔

دانہ جمانا۔ (۱۔ محاورہ) بیج چھوٹ آنا۔
 دانہ خور۔ (ق) صفت) دانہ کھانے والے۔ چنا کھانے والا (جانور)۔
 دانہ دار۔ (۱۔ صفت) وہ شے جس میں گول گول دانے پیدا ہو جائیں۔
 دانہ دانہ است غلہ در انبار۔ (دیشل) ایک ایک دانہ جمع ہو کر انبار
 ہو جاتا ہے۔

دانہ دانہ کرنا۔ (۱۔ محاورہ) دانہ دانہ ہونا۔ بھر جانا۔
 دانہ ڈنکا۔ (۱) تھوڑا سا دانہ (۲) ایک آدھا دانہ (۳) مگرے۔ گرا پڑا دانہ۔
 دانہ دینا۔ (۱۔ محاورہ) دانہ ڈالنا۔ پالتو جانوروں کو دانہ کھلانا۔
 دانہ ڈالنا۔ (۱۔ محاورہ) کبوتروں اور مرغیوں وغیرہ کو دانہ کھلانا (۲) کسی کو
 پھینانے کے لیے کوئی نفل کرنا (۳) دو آدمیوں کو لڑانے کے لیے لگائی
 بجھائی کرنا۔

دانہ زرد۔ (ق) صفت) کیلینہ گھٹیا شخص (۲) مفوک الحال مفلس (۳)
 کنجوس۔

دانہ زنجیر۔ زنجیر کا ایک حلقہ۔ زنجیر کی کڑی۔
 دانہ کھانے نہ پانی پیوے۔ وہ آدمی کیلے جو بوسے۔ (دیشل) جو شخص
 کھانہ پیتا نہیں وہ تڑپا کیلے رہ سکتا ہے (رزق و مال کے باعث)
 دانہ نہ گھاس پانی چیر چیر وقت (دیشل) آدمی خاطر داری تو بہت کرے
 دانہ نہ گھاس بھر پرا آئین میں بار آگر نقد کچھ نہ دے۔
 دانہ نہ گھاس کھو کر تیری آس۔ (دیشل) دینا دلاتا کچھ نہیں صفت میں
 کام لیتا ہے۔

دانہ یا قوت۔ (ق) (۱) یا قوت کا پرزہ۔
 دانی۔ (۱۔ صفت) فیاض سخی (۲) طرف کا لاحقہ جیسے سرمد دانی۔
 دانے پانی کے اختیار ہے۔ (دیشل) قسمت کے بس میں ہے۔ تقدیر
 کے ہاتھ میں ہے۔

داڑھہ - (دا - برہ - درع - ا - مذ) (۱) معلقہ - کنڈل - پکڑ - دور - محیط (۲) منڈلی - عیس (۳) اقلیدس کی شکل (۴) خانقاہ - ڈبرہ - مکر - ٹولہ (۵) ڈغلی - ایک باجر کا نام جو ایک طرف سے کھلا ہوا ہوتا ہے - چنگ (۶) ترزون کی گولائی جیسے بیج یا ع کا دائرہ - جمع : دواڑہ - دائرہ اھلیار - (ع - ا - مذ) معلقہ اختیار - وہ علاقہ جس میں کسی کو کسی قسم کا اختیار حاصل ہو - حدود اختیارات - دائرۃ المعارف - (ع - مذ) معلومات عامہ کی کتاب - وہ کتاب جس میں بترتیب حروف تہجی مختلف موضوعات یا کسی خاص موضوع کے متعلق تمام معلومات جمع کر دی گئی ہوں - مخزن العلوم - دائرہ قطبی - (ف - ا - مذ) وہ فرضی خط جہاں سے قطب شمالی اور جنوبی کی مدد شروع ہوتی ہے - دائرہ کش - (ع - ف - ا) بیکار - دائرہ کھینچنا - (ع - ا) صفت، بیکار سے دائرہ بنانا - دائرہ وسیع ہونا - (ا - محاورہ) رسوخ زیادہ ہونا - بیت سے لوگوں سے لگانا، بڑا نام - (دا - ا) م - (ع - صفت) ہمیشہ - بنت - سدا - مدام - دائرہ الجہنم - (ع - صفت) ہر وقت شراب پینے والا - بڑا شرابی - دائرہ الصبوح - (ع - ف) ہمیشہ روزہ رکھنے والا - دائرہ المرض - دائرہ المرض - (ع - صفت) ہمیشہ بیمار رہنے والا - دائرہ - (دا - ا - م - ن) ہمیشہ سے - لگاتار - دایہ - (دا - ا - م - ن) (ع - صفت) سدا کا - ابدی (۲) ثبات والا - دائرہ - (دا - ا - ن) (ع - صفت) قرض دینے والا - قرض خواہ - داؤ (داؤل) - (دا - ا - ا - ا) (دا - ا - ا) (ذ) (۱) شطرنج، جوئے وغیرہ کی چال (۲) چالبازی - فریب (۳) قابو - موقعہ - گھات - چال (۴) نوبت باری (۵) وہ چیز جو باری نشان ظاہر کرنے کو رکھتے ہیں (۶) شرط وہ چیز یا رقم جو جیتنے پر لی جاتی ہے (۷) پانسہ - قرعہ (۸) گورکھوں اور عربوں کا قوس نما چھڑا (۹) گشتی کا بیج - داؤ آنا (پڑنا) - (ا - محاورہ) جوئے میں حسب مراد پانسہ پڑنا (۲) باری آنا - نوبت آنا - داؤ بیٹھنا - (ا - محاورہ) گھات لگانا - موقع ملنا - داؤ پر چڑھنا - (ا - محاورہ) (۱) قابو میں لانا - بس میں کرنا (۲) دھوکہ دینا - فریب دینا - بیج پر چڑھنا - داؤ پر رکھنا - (ا - محاورہ) بازی پر لگانا - شرط پر رکھنا - داؤ پر لگانا - (ا - محاورہ) شرط پر رکھنا - داؤ بیٹھنا - (ا - محاورہ) پاسہ بیٹھنا - کوڑیاں بیٹھنا - داؤ بیچ - (ا - مذ) (۱) گشتی کے بند - بازی کے ڈھنگ (۲) چال - مکر و فریب داؤ بیٹھنا - (ا - محاورہ) فریب دینا - چال چلنا - دھوکہ دینا - داؤ دینا - (ا - محاورہ) فریب دینا - داؤ کرنا - (ا - محاورہ) (۱) دھوکہ دینا - فریب کرنا (۲) گشتی میں بیج کرنا - داؤ کھانا جانا (کھانا) - (ا - محاورہ) فریب کھانا - دھوکہ کھانا -

داؤ کھیلنا - (ا - محاورہ) (۱) جمل دینا - دھوکہ دینا (۲) گھات لگانا - داؤ گھات - (ا - مٹ) خفیہ تدبیر - گھات - جیلہ - بیج - تاک - داؤ کھاؤ - (ا - محاورہ) (۱) فریب کا ڈکھ (۲) جوئے کی کار کارج (۳) فریب دھوکہ - چال - مکر - داؤ لینا - (ا - محاورہ) (۱) اپنی باری لینا (۲) موقعہ پا کر نائدہ اٹھانا - داؤ مارنا - (ا - محاورہ) نفع کثیر اٹھانا - دھوکہ دینا - داؤ ڈالنا - (ا - محاورہ) (ع - ا - مذ) (۱) محبوب الہی - عزیز (۲) ایک مشہور بیگز - جو جن پر کتاب زبور نازل ہوئی تھی - داؤ ڈری - (دا - اؤ - دی) (ف - ا - مذ) (۱) ایک زردی مائل سینڈھول - گل داؤ ڈی (۲) سینڈھول مائل کیوں (۳) صفت [حضرت داؤد سے منسوب (۴) ایک قسم کی آتشی زہی - داؤنی - (دا - اؤ - نی) (ق - ا - مٹ) برقع عورت کی چادر - اوڑھنی - دائی - (دا - اؤ - نی) (ع - ا - مٹ) (۱) دودھ پلانے والی - آنا (۲) بچہ جنمے کا پیشہ کرنے والی عورت - دائرہ - قابلہ (۳) وہ جگہ جہاں آنکھ چوٹی کھینے کے لیے نیچے جمع ہوتے ہیں - دائی پلائی - (ا - مٹ) آنا - دودھ پلانے والی - دائی جنائی - (ا - مٹ) (۱) جنمے والی عورت (۲) ہوشیار عورت - دائی جنبتیل کے گھر مرزا موگرا - [ایش] اونے ذات کا ہو کر ششی بھانے والے بڑھنڑ - دائی سے پیٹ بھانا - (ا - محاورہ) رازداروں سے عیب بھانا - دائی کے سر بیان پھول - (ا - مٹ) غریب کو ہر طرح کا الزام لگ جاتا ہے - دائی گیری - (ا - مٹ) جنمے کا پیشہ یا کام - دائیں - (دا - ا - ی) (ع - صفت) سیدھے ماتھے کی طرف - داہنی طرف - دائیں بائیں - (۱) چپ و راست (۲) ادھر ادھر - دائیں بائیں دے کر نکل جانا - (ا - محاورہ) دھوکہ دے کر نکل جانا - دائیں بائیں دیکھنا - (ا - محاورہ) ادھر ادھر دیکھنا - ہوشیار ہونا - دائیں بائیں کرنا، گردینا - (ا - محاورہ) پھپھادینا - ادھر ادھر کر دینا - دائیں بائیں کے ہیں - (ا - مقولہ) دونوں مساوی درجے کے ہیں - دائیں - (دا - ا - ی) (ع - ا - مٹ) (۱) توپ - بندوق - پٹانہ فٹوٹنے کی آواز (۲) بیلوں کو گاہنے کے لیے بانڈھنا (۳) بیلوں سے اناج گاہنا - دائیں چلانا - اناج گاہنا - کھیلنا - بیلوں کو چلانا - دائیں دائیں - توپ - بندوق یا پٹانے چھٹنے کی آواز - دنا دن - دایاں - (دا - یاں) (ع - صفت) داہنا - دایاں بازو - (ا - مذ) ریاست، اعدادال پسند جماعت (۲) سیدھا بازو - دایاں پیر ہلاؤں کی توکھر ہی پیر مناؤں کی - [ایش] عمدتی آدمی ہر جگہ کما کرتا ہے - دائرہ - (دا - ی) (ع - ا - مٹ) بچے کو پرورش کرنے والی - آنا - پلائی - کھلائی - خادمہ - ما - دائرہ گیری - (ف - ا - مٹ) دائرہ کا پیشہ - دائرہ کا کام -

د ب

دُبّ - (د-ب-ا) - مذ (۱) کچھ (۲) قطب شمالی کے قریب کچھ سے مشابہ کچھ ستاروں کے مجموعے جن میں سے بڑے کو دُبّ اکبر اور چھوٹے کو دُبّ اصغر کہتے ہیں۔

دُبّ اکبر - دُبّ اصغر - (د-ب-ا) - مذ، دیکھیے دُبّ نمبر ۲۔

دُبّ - (د-ب-ا) - صفت [دباؤ (۲) دینا کا امر۔

دُبّ آنا - (۱) محاورہ) بڑھ آنا۔ آگے بڑھنا۔

دُبّ جانا - (۱) محاورہ) کسی چیز کے نیچے آجانا۔ مغلوب ہوجانا۔

دُبّ دبا جانا - (۱) محاورہ) معاملہ رفت گذشت ہوجانا۔

دُبّ کر (کے) - (۱) مرحوب ہو کر۔ ڈر کر۔

دُبّ کے چلنا - (۱) محاورہ) کتر کے چلنا۔ ڈرک کے چلنا۔

دُبّ رکھنا - (۱) محاورہ) (۱) عاجز ہوجانا پست ہوجانا (۲) مغلوب ہوجانا (۳) ڈر جانا۔

دبا - (د-ب-ا) - (صفت) (۱) گڑا ہوا (۲) تاک لگائے ہوئے (۳) ڈرا ہوا۔ رُعب

میں آیا ہوا (۴) قابو میں آیا ہوا (۵) ڈگا ہوا (۶) زیر۔

دبا بننا - پورا لولے۔ (پیش) جب کسی پردباؤ پڑے تو وہ حق ادا کرتا ہے۔

دبا بیٹھنا - (۱) محاورہ) (۱) دبوچ لینا (۲) مال مار لینا۔ زبردستی قبضہ کر لینا۔

دبا جانا - (۱) محاورہ) چھپا جانا۔ نظروں میں نہ آنے دینا۔

دبا دبا یا - (۱) صفت) دبا ہوا۔ گڑا ہوا۔ چھپا ہوا (۲) مغلوب ہوجانا۔

دبا دینا - (۱) محاورہ) (۱) گڑ دینا (۲) فرو کر دینا۔ روک دینا (۳) چھپا دینا۔

دبا ڈالنا - (۱) محاورہ) کسی بات کو چھپا دینا (۲) کسی تحریک کو کچل دینا۔

دبا رہنا - (۱) محاورہ) مغلوب رہنا۔ دیکھا رہنا۔ چھپا رہنا۔

دبا کر - جبر سے۔ زبردستی سے۔ محکم سے۔

دبا لینا - (۱) محاورہ) (۱) مال مار لینا (۲) دبوچ لینا (۳) مغلوب کر لینا۔

دبا - (د-ب-ا) - (د-ب-ا) - مذ (۱) درخت کی شاخ جس کو مٹی میں دبا دیتے ہیں کہ

بڑیں نکال کر نیا پودا بن جائے (۲) گھات۔ تاک (۳) غوطہ۔

ڈبّی۔

دبا مارنا - (۱) محاورہ) گھات لگانا۔ تاک میں بیٹھنا۔

دبا زیت - (د-ب-ا) - (صفت) (۱) گندگی۔ گنداپن (۲) موٹاپن۔ موٹائی۔ حجم۔

دبا سٹی - (د-ب-ا) - مذ (۱) دوزخ میں جانے والا۔ دو بھاشی۔ ترجمان۔

دبا بخ - (د-ب-ا) - (د-ب-ا) - مذ (۱) چڑھ بنانے والا۔ چرم ساز۔

دبا عنت - (د-ب-ا) - (صفت) (۱) - (صفت) (۱) چڑھ کمانا۔ چڑھ کمانے کا فن۔

چرم سازی۔

دبانہ - (د-ب-ا) - (د-ب-ا) - (صفت) (۱) گاڑنا۔ چھپانا۔ دفن کرنا (۲) بیج بونا (۳)

مغلوب کرنا۔ مال مارنا۔ زبردستی قبضہ کرنا (۴) تنگ کرنا (۵) دباؤ

ڈالنا (۶) ناراض ہونا (۷) ٹھوٹنا۔ زور سے بھرنا (۸) کمی کرنا۔

(۹) بدن کو پتھی کرنا (۱۰) شکست دینا (۱۱) تعاقب کرنا (۱۲) دبوچنا۔

(۱۳) چھیننا۔

دباؤ - (د-ب-ا) - (د-ب-ا) - (صفت) (۱) بوجھ۔ بار۔ وزن۔ زور۔ ظہر (۲) خوف۔

دہشت (۳) رُعب (۴) روک۔ پابندی (۵) عزت۔ حرمت (۶)

اطاعت۔ رضا جوئی (۷) جھکاؤ۔

دباؤ ڈیڑنا - (۱) محاورہ) (۱) بوجھ ڈالنا۔ زور ڈالنا (۲) جبر کرنا

سختی کرنا (۳) رُعب ڈالنا۔

دباؤ کھانا - (۱) محاورہ) رُعب ماننا۔

دباؤ ماننا - (۱) محاورہ) (۱) اطاعت کرنا (۲) رُعب ماننا۔

دباؤ ہونا - (۱) محاورہ) (۱) بوجھ ہونا۔ زور ہونا (۲) رُعب ہونا۔ اثر ہونا۔

(۳) روک ہونا۔ پابندی ہونا۔

دباؤ - (۱) صفت) بھاری۔ بوجھل۔

دبا ئے رکھنا - (۱) محاورہ) چھپا کر رکھنا۔ ظاہر نہ ہونے دینا۔

دبتے کو سب دباتے ہیں - (پیش) غریب کو سب ستاتے ہیں۔

دب دیکھ - (د-ب-ا) - (د-ب-ا) - (صفت) (۱) شور۔ آواز (۲) رُعب۔

شان۔ شوکت۔

دب دیکھ بٹھانا - (۱) محاورہ) (۱) رُعب جمانا (۲) خوف زدہ کرنا۔

دب دیکھ دکھانا - (۱) محاورہ) رُعب دکھانا۔

دب دیکھا - (د-ب-ا) - (صفت) (۱) تذبذب۔ شک۔ شبہ۔ پس و پیش۔

(۲) گھبراہٹ۔ پریشانی (۳) دم۔ دوسرے۔

دب دیکھا میں دو دنوں گئے - مایا ملی نہ رام - (پیش) شکی آدمی ہمیشہ

نقصان اٹھاتا ہے۔

دب دیکھ - (د-ب-ا) - (صفت) (۱) پیٹھ۔ پیچھا۔ پشت (۲) کسی چیز کا پھلنا۔

دب دیکھ - (۳) پتھر۔ گانڈ۔ مقعد۔ سفروہ۔ کون۔

دب دیکھ گھسٹو - (د-ب-ا) - (صفت) (۱) معنی (۲) بڑ دل۔

دب دیکھ لوگ - (۳) شکی (۴) زبردستی گھسا ہوا۔

دبستان - (د-ب-ا) - (صفت) (۱) سکول۔ مدرسہ۔ مکتب۔

دبستانی - (د-ب-ا) - (صفت) (۱) طالب علم (۲) سکول

کے متعلق۔

دبقت - (د-ب-ا) - (صفت) (۱) لاسہ جس سے جانوروں کو پکڑتے ہیں (۲)

سرسپیش۔

دبک - (د-ب-ا) - (صفت) (۱) ڈانٹ۔ دھمکی (۲) دیکنا کا امر۔

دبک آنا - (۱) محاورہ) (۱) دیکھنا۔ دیکھنا (۲) دیکھنا۔ دیکھنا (۳) پیٹ

زمین سے لگا کر بیٹھنا۔ گھات میں بیٹھنا (۴) چھپنا۔ چھپ کر چلے آنا۔

دبک شیرے کے منگے میں - (پیش) موقع ملاحت سے نہ جانے دینا۔

دبکا - (د-ب-ا) - (صفت) (۱) چوہے مارنے کا آلہ (۲) ڈرا ہوا (۳)

کسی کو ڈرا۔ دھمکی دے۔

دبکانا - (د-ب-ا) - (صفت) (۱) چھپانا۔ پوشیدہ کرنا - (۲) روکنا۔

(۳) دباننا۔ ناراض ہونا (۴) دھمکانا۔ ڈرانا (۵) سینے

سے لگانا۔

دبکنا - (د-ب-ا) - (صفت) (۱) چھیننا۔ رُو پوش ہونا (۲) ڈرنا۔ ٹنہ

پھیرنا (۳) سونے چاندی کے تاروں کو کوٹ کوٹ کر جوڑنا کرنا۔

دُکبی - (دب - کن - ای) (دہ - ۱ - امٹ) سلم بنانے کے لیے تار کے کونٹے کا کام تار کے کونٹے کا پیشہ۔
دُبکی - (دب - کی) (دہ - ۱ - امٹ) (۱) چھیننے کا فعل (۲) گھات - تاک۔
دُبکی لگانا - دُبکی مارنا، اجمادہ (۱) کین گاہ میں بیٹھنا (۲) گھات لگانا۔
دُبکیا - (دب - کی) (آ - ۷ - ۱ - ۵ - ۱ - ۵ - ۱) وہ شخص جو سلعے کے لیے تار کو کونٹتا ہے۔
دُبکی (۲) دُبکی۔
دُبکیل - دُبکیل - (دب - کیل) - (دب - کیل) (دہ - ۱ - صف) تاک لگانے والا۔
دُبگر - (دب - گر) (دہ - ۱ - ۵ - ۱ - ۵ - ۱) وہ شخص جو چمڑے کی بوتلیں - ترازو - پیسے بنائے (۲) دھالیں بنانے والا (۳) کچے بنانے والا۔
دُبللا - (دب - لا) (دہ - ۱ - ۵ - ۱ - ۵ - ۱) پتلا - لاغر - مخنی - کمزور - ضعیف۔
دُبلایا - دُبلایا - (دب - یای) - (دب - یای) (دہ - ۱ - ۵ - ۱ - ۵ - ۱) لاغری - پتلپن - کمزوری - ضعف۔
دُبلاتا کرنا - دُبلاتا کرنا - (دب - یای) (دہ - ۱ - ۵ - ۱ - ۵ - ۱) لاغر ہونا - کمزور ہونا - کمزور کرنا۔

دبے پر چونٹی بھی کاٹی ہے۔ (ایشل) تنگ اگر کمزور ہی حمل کر دیتا ہے۔
 دبے پر سب شیریں ہیں۔ (ایشل) کمزور پر سب حکم چلاتے ہیں۔
 دبے رہنا۔ (ع - ۱ - ۵ - ۱ - ۵ - ۱) بوجھ کے نیچے رہنا۔ مغلوب رہنا۔
دُبے - (دب - بے) (دہ - ۱ - ۵ - ۱ - ۵ - ۱) دو دید جاننے والا بڑھن۔
دُبیر - (دب - یر) (ع - ۱ - ۵ - ۱ - ۵ - ۱) مصنف - مؤلف - انشاپرداز (۲) منشی - محرز - راقم - سیکریٹری (۳) ہنڈیاں تصدیق کرنے والا امسر (۴) مشہور شاعر مرزا سلامت علی گھنوی کا تخلص۔
دُبیرا لنگ - (دب - لغ) (ع - ۱ - ۵ - ۱ - ۵ - ۱) سیکرٹری آف میٹس (۲) شاہی محرز۔
 (۳) عہد منگیہ کا ایک خطاب۔
دُبیر فلک - (دب - ف - ۱ - ۵ - ۱ - ۵ - ۱) ستارہ عطارد۔
دُبیر - (دب - یر) (ع - ۱ - ۵ - ۱ - ۵ - ۱) موٹا۔ گت۔ مضبوط۔
دُبیل - (دب - یل) (دہ - ۱ - ۵ - ۱ - ۵ - ۱) ماتحت - تابع (۲) کمزور - ضعیف۔

دب - پ

دُبلی - (دب - لی) (دہ - ۱ - ۵ - ۱ - ۵ - ۱) تیلی - کمزور - پھر رہے بدن کی۔
دُبلی بلی چوہوں سے کان کٹوالی ہے - (ایشل) زبردست قابو میں آکر کمزور کا تابع ہو جاتا ہے۔
دُبنا - (دب - نا) (دہ - ۱ - ۵ - ۱ - ۵ - ۱) روح کے نیچے آنا (۲) دفن ہونا - گزانا۔
 (۳) پوشیدہ ہونا - زیر ہونا (۴) منگڑنا۔ منگڑنا (۵) ہٹنا - پچنا (۶) بجز و انکسار کرنا (۷) اپنا بھیننا (۸) شرمانا (۹) کسی چیز کے اجزاء کا متصل ہو جانا (۱۰) فرو ہونا - رنج ہو جانا۔
دُبنگا - (دب - نگا) - (دب - بن - گا) (دہ - ۱ - ۵ - ۱ - ۵ - ۱) ہٹا کتا زبردست۔
 (۲) بے رحم (۳) فریب - قوی سیکل (۴) بے باک۔
 (دب - ۱ - ۵ - ۱ - ۵ - ۱) دینے والا۔

دبانا - (دب - نا) (دہ - ۱ - ۵ - ۱ - ۵ - ۱) روح میں روشن کرنا۔ چراغ جلانا۔
دِبٹ - (دب - پٹ) (دہ - ۱ - ۵ - ۱ - ۵ - ۱) دوڑ (۲) جھپٹ جملہ (۳) گھر کی۔
دُبٹانا - (دب - ٹانا) (دہ - ۱ - ۵ - ۱ - ۵ - ۱) سر پٹ دوڑانا (۲) ہل کرنا۔ ڈاشنا۔
دُبٹنا - (دب - ٹنا) (دہ - ۱ - ۵ - ۱ - ۵ - ۱) حمل کرنا۔ بڑ کرنا (۲) ڈاشنا - دھکانا۔
 (۳) تیز چلانا۔

دب - ت

دبوجنا - (دب - بوج - نا) (دہ - ۱ - ۵ - ۱ - ۵ - ۱) پکولینا (۲) قابو میں کر لینا۔ (۳) دبانا۔
دُبوجینا (۲) چھیلنا۔
دُبوڈ - (دب - ڈوڈ) (دہ - ۱ - ۵ - ۱ - ۵ - ۱) کسی بات کو چھپا دینا - کسی معاملہ کو دبا دینا۔
دُبوڈ - (دب - ڈوڈ) (ع - ۱ - ۵ - ۱ - ۵ - ۱) پھچھو اٹوا - باد صبا - باد نسیم۔
دُبوس - (دب - بوس) (ف - ۱ - ۵ - ۱ - ۵ - ۱) عصا - گز آہنی۔
دُبوسہ - (دب - بوسہ) (ف - ۱ - ۵ - ۱ - ۵ - ۱) جہاز کا کمرہ (۲) اسباب کی کشتی۔
دُبوسنا - (دب - بوسنا) (دہ - ۱ - ۵ - ۱ - ۵ - ۱) منشی چیز بیانا - مدہوش ہونا۔
دُبیر - (دب - یر) (ع - ۱ - ۵ - ۱ - ۵ - ۱) چمڑے کا چمچا - پتہ۔
دُبلی - (دب - لی) (دہ - ۱ - ۵ - ۱ - ۵ - ۱) صفت گڑھی ہوتی۔
دُبلی آگ - (دب - لی آگ) (دہ - ۱ - ۵ - ۱ - ۵ - ۱) بڑا بھگڑے کو تازہ کرنا۔
دُبلی بلی چوہوں سے کان کٹوالی ہے - (کہادت) دبے ہوئے زبردست پر زبردست بھی حکم چلاتے ہیں۔
دُبلی دینی ہنسی - (دب - لی ہنسی) (دہ - ۱ - ۵ - ۱ - ۵ - ۱) بڑی طرح مہل کر رہنا۔
دُبلی زبان سے کہنا - (دب - لی زبان) (دہ - ۱ - ۵ - ۱ - ۵ - ۱) عمارت سے کہنا۔ ڈکتے ڈکتے کہنا۔
دُبلی دیرتے کہنا۔
دُبلیے یاؤں جانا۔ ڈمٹے ڈمٹے جانا۔ چھپ کر جانا۔
دُبلیے بڑے۔ عاجز آکر جب اندر چھ نہ ہو سکے۔

دبت - (دب - ت) (دہ - ۱ - ۵ - ۱ - ۵ - ۱) عطایا ہوا۔ ہبہ کیا ہوا (۲) ویش قوم کے ہندوؤں کا نام۔
دبت - (دب - ت) (دہ - ۱ - ۵ - ۱ - ۵ - ۱) کلمہ تحقیر (۱) دُور۔ پُرسے۔ جھٹ (۲) گنے کو جھگانے کی آواز۔
دبت تیرے کی - (دب - تیرے کی) (دہ - ۱ - ۵ - ۱ - ۵ - ۱) کلمہ تحقیر بہت تیرے کی۔
دبتکار - (دب - تکار) (دہ - ۱ - ۵ - ۱ - ۵ - ۱) دھتکار۔ لعنت۔ ملامت۔ گھر کی۔
دبتکارنا - (دب - تکارنا) (دہ - ۱ - ۵ - ۱ - ۵ - ۱) دھتکارنا۔ لعنت ملامت کرنا۔
دبترا - (دب - ترا) (دہ - ۱ - ۵ - ۱ - ۵ - ۱) لڑکی کا بڑا بھتیجہ جس سے گھاس اکھی کرتے ہیں۔
دبتو - (دب - تو) (دہ - ۱ - ۵ - ۱ - ۵ - ۱) پتوں کا ایک دُہرا روئی والا کپڑا۔
دبتوؤں - (دب - توؤں) (دہ - ۱ - ۵ - ۱ - ۵ - ۱) دہ پتوں کا ایک دُہرا روئی والا کپڑا۔
دبتوؤں - (دب - توؤں) (دہ - ۱ - ۵ - ۱ - ۵ - ۱) دہ پتوں کا ایک دُہرا روئی والا کپڑا۔

دب - ث

دبتار - (دب - تار) (ع - ۱ - ۵ - ۱ - ۵ - ۱) وہ کپڑا جو دوسرے کپڑوں کے اُوپر پہنا

دُختر رُمیلیہ - (ف۔ مٹ) سوتیلی بیٹی۔ لے پاک۔
 دُختر تک - (ف۔ مٹ) دُختر کی تفسیر۔
 دُختر عجم - (ف۔ مٹ) بھجیا زاد بہن۔
 دُختر عمران - حضرت مریم۔
 دُختر نیک اختر - (ف۔ صف) نیک نصیبہ والی بیٹی۔

دُختر جاتا ہے جیسے پُختہ - چادر (۲) عادت - معمول - رسم۔
 دُختر - (ع۔ مذ) پڑھوں کا میل کمیل۔
 دُختر - (ع۔ صف) گنگام آدمی (۲) نیند کا ماتا۔ متوالا۔

د - ج

دُختری - (دُخ۔ ث۔ ری) (ف۔ صف) دوشیزگی۔ کنوارپن (۲) لڑکی کا لقب۔
 دُخل - (ع۔ ا۔ مذ) (۱) رسائی۔ پہنچ (۲) قبضہ۔ تصرف (۳) تعلیمی ترقی۔ استعداد
 سمجھ - فہم (۴) امکان (۵) مجال۔ طاقت۔ قوت (۶) اثر۔ تاثیر (۷) بہارت
 قابلیت۔ واقفیت (۸) اختیار (۹) مداخلت۔ دست اندازی (۱۰) آمدنی
 یافت۔ حصول۔ فائدہ۔ نفع۔
 دُخل انداز - (ع۔ ف۔ صف) دُخل دینے والا۔ مداخلت کرنے والا۔
 دُخل بے جا - (ع۔ ف۔ مذ) بے اجازت کسی کے مکان میں چلے جانا۔
 مداخلت نا جائز۔
 دُخل مانا - (۱) محاورہ) رسائی ہونا۔ باریابی ہونا (۲) زمین کا قبضہ ملنا۔
 دُخل تمام رکھنا - (۱) محاورہ) مکمل طور پر جانا پورا ماہر ہونا۔
 دُخل در معقولات - (ع۔ ف۔ ا۔ مذ) کسی معاملہ میں خواہ مخواہ مداخلت
 بیچ میں بولنا۔

دُکھاج - (ع۔ مذ) مُرغا۔

دُکھال - (دُج۔ جال) (ع۔ صف) (۱) جھوٹا۔ سچائی کو چھپانے والا۔ کاذب۔
 (۲) طلا۔ سونا۔ زر (۳) تیغ جو ہر دار (۴) مخالف مسیح۔ روایت کے مطابق
 ایک جھوٹا شخص جو اخیر زمانہ میں پیدا ہوگا۔ مسلمانوں کے عقیدہ کے مطابق
 حضرت مسیح اسے قتل کریں گے۔

دُجیل - (دُج۔ جیل) (ع۔ ا۔ مذ) فریب۔ دھوکہ۔ جھوٹ (۲) ادھیل (ق)
 دُجلی - (ع۔ مٹ) تاریکی۔ اندھیرا۔

د - ج

دُخل دلائی - (ع۔ ف۔ ا۔ مٹ) قبضہ دلانا۔ قابض کرانا۔
 دُخل دینا - (۱) محاورہ) (۱) بیچ میں بولنا (۲) دست اندازی کرنا۔ دخلت
 کرنا (۳) بیچ میں پڑنا (۴) قبضہ دینا۔
 دُخل رکھنا - (۱) محاورہ) ماہر ہونا۔ کامل ہونا۔
 دُخل فی المجال - موجودہ قبضہ۔
 دُخل لینا - (۱) محاورہ) قبضہ لینا۔
 دُخل نامہ - (ع۔ ف۔ ا۔ مذ) قبضے کی سند یا محکم۔ قابض ہونے کا
 سرکاری محکم۔

دُرج - (ع۔ مذ) مکان۔ جھونپڑا۔

دُرجت - (دُج۔ جت) (ع۔ ا۔ مذ) دو دلا۔ مذذب۔
 دُچکنا - (دُج۔ چک۔ نا) (ق۔ مص) دہشت زدہ ہونا۔ ڈرنا۔
 دُچھنا - (دُچھ۔ نا) (ع۔ ا۔ مٹ) تحفہ۔ عطیہ۔ انعام (۲) دکشا۔

د - خ

دُخل و خرچ - (ع۔ ف۔ ا۔ مذ) آمدنی اور خرچ۔
 دُخل یابی - (ع۔ ف۔ ا۔ مٹ) (۱) قبضہ۔ تصرف (۲) رسائی۔ پہنچ۔
 دُخمہ - (دُخ۔ خم) (ف۔ ا۔ مذ) (۱) پارسیوں کا قبرستان۔ مقبرہ (۲) تابوت (۳)
 وہ گوشت جو اونٹ کے منہ سے سستی کے وقت نکلنے ہے۔
 دُخول - (دُخ۔ خول) (ع۔ ا۔ مذ) (۱) درآمد۔ دخل۔ گزر۔ رسائی (۲) اندر گھٹنا۔
 خرچ یا جائے مخصوص میں گھسیڑنا۔ داخل کرنا۔
 دُخیل - (دُخ۔ ییل) (ع۔ صف) (۱) دُخل دینے والا۔ مداخلت کرنے والا۔
 (۲) باریاب۔ سینھے والا (۳) قابض۔ تصرف (۴) بے تکلف۔ واقف کار
 (۵) مستعمل۔ اختیار کردہ (۶) اصطلاح علم عروض میں وہ حرف جو الف
 تاسیس کے بعد نظم میں آئے۔
 دُخیل کار - (ع۔ ف۔ ا۔ مذ) (۱) کاروبار میں دخل دینے والا۔ سربراہ کار
 (۲) صلاح کار۔ شریک رائے۔ مصاحب (۳) کاشت کار جس کا قبضہ
 کا حق ہو۔

دُخ - (ف۔ مٹ) دُختر کا مخفف بیٹی (۲) ایک آبی پودا جس کی پٹائیاں
 بنتی ہیں۔

دُخ - (ع۔ مذ) (۱) دھواں (۲) اگلا (۳) شہاب ثاقب۔ آتش بازی کی ہوائی۔
 دُخان - (دُخ۔ خان) (ع۔ ا۔ مذ) (۱) دھواں (۲) بھاپ (۳) تباہ کو کا دھواں۔
 دُخانی - (دُخ۔ غانی) (ع۔ صف) (۱) دھوئیں کا۔ دھوئیں سے متعلق (۲)
 بھاپ سے چلنے والا۔

دُخانی جہاز - (ع۔ ا۔ مذ) وہ جہاز جو بھاپ کی طاقت سے چلے۔ سٹیئر۔
 دُخت - (ف۔ مٹ) دُختر کا مخفف۔ بیٹی۔ لڑکی۔ کینا۔
 دُخت رز (تاک۔ عجب) - (ف۔ ا۔ مٹ) انگور کی بیٹی یعنی انگوری
 شراب۔

دُختر - (دُخ۔ تر) (ف۔ ا۔ مٹ) لڑکی۔ بیٹی۔ جمع، دُختران۔

دُختر آفتاب - (ف۔ صف) شہر شراب۔
 دُختر روزگار - (ف۔ صف) (۱) دُنیا (۲) زمانے کے نشیب و فراز۔
 دُختر خانہ - (ف۔ مٹ) کنواری لڑکی۔

دُخیل کاری - (ع۔ ف۔ ا۔ مٹ) قبضہ۔ تصرف۔
 دُخیل کرنا - (مص۔ مرکب) قبضہ کرنے کی اجازت دینا۔ قبضہ دلانا۔

دربند کرنا۔ دربند ہونا۔ (۱- محاورہ) دروازہ بند ہونا۔
 دربندی۔ (ف-۱- مٹ) تلاشی لینے کے لیے دروازہ بند کرنا (۲- قید حرا)۔
 درپر پڑنا۔ (۱- محاورہ) کسی کے پاس پناہ لینا۔
 در ڈر۔ (ف- مذ) (۱) در بند۔ دروازہ یہ دروازہ (۲) بگ بگ۔
 در در پھرنا۔ (۱- محاورہ) دنیا بھر میں مارا مارا پھرنا۔
 در تو بہ باز سے (ابتر تو بہ کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے۔
 در در کی ٹھوکریں کھانا۔ (۱- محاورہ) (۱) مارا مارا پھرنا (۲) دنیا بھر میں
 ذیل ہونا۔
 در در مانگنا۔ (۱- محاورہ) لوگوں کے دروازوں پر بھیک مانگتے پھرنا۔
 در دولت۔ (ف-۱- مذ) (۱) زمین کا مکان (۲) دوسرے کے مکان کو
 عزت افزائی کے طور پر کہتے ہیں۔
 در کا بندہ۔ (ف-۱- مذ) ہر وقت حاضر رہنے والا نوکر۔ غلام۔
 در کا گنا۔ (ف-۱- مذ) کسی کے گھر سے لے کر کھانے والا شخص۔ یہ محاورہ
 انتہائی عجز کے مقام پر بولتے ہیں۔
 در دیوار پر نظر دیکھنا کرنا۔ سخت گھبراہٹ میں ہونا۔ گھبرا کر چاروں
 طرف دیکھنا۔
 در دیوار سے باتیں کرنا۔ (۱- محاورہ) دیواروں کی طرح خود بخود بکنا۔
 در دیوار کان سمجھتے ہیں۔ (۱- محاورہ) ہر طرح بھید حاصل کرنے والے
 تاک میں ہیں۔ یہ محاورہ انتہائی انخفا کے لیے بولتے ہیں۔

دربیل ہونا۔ (۱) قبضہ ہونا (۲) مخالفت کرنا (۳) کسی غیر زبان کے لفظ
 کا مستعمل ہونا (۴) مزاج پر قابو پانا۔

د-د

دو۔ (ف-۱- مذ) درندہ۔ پھاٹنے والا جانور۔
 دو دوام۔ (ف-۱- مذ) درندہ چرند۔
 دو۔ (د- مذ) (۱) مذ ملازمہ جو بونہ کی پرورش کرے۔ کھلائی۔ اتا۔
 دو در۔ (س- مذ) داد۔ ایک پھاری۔
 دو ڈوڑا۔ (د- دو- ڈا) (۱- مذ) آٹا یا دانے جو پھروں کے کاٹنے یا جوش
 خون کے باعث جلد برفنیاں ہوں۔
 دو دھار۔ دو دھاری۔ (د- دھار) (د- دھا- ری) (د- صف) دودھ دینے والی
 دودھ پھر۔ (د- دھڑ) (د- دھڑ) (۱) دو طرفہ کارروائی (۲) تذبذب۔
 دو ڈھری۔ (د- دھہ- ری) (د- دھہ) (۱) شیر گیہ (۲) ایک ٹوٹی ٹیس کے ٹوڑنے
 سے دودھ نکلتا ہے (۳) ایک قسم کا سفید اور سرخ پتھر۔ چاک کی پینل
 (۴) چوچی۔ چھائی۔ پستان۔
 دو دھیال۔ (د- دھہ- یال) (د- دھوٹ) دادا کا گھر۔ دادا کا خاندان۔
 دادا کی اولاد۔
 دو ڈھیل۔ (د- ڈھیل) (د- صف) دودھ دینے والی۔
 دو ڈھیل گائے کی دو لائیں بھی بھیل۔ (د- ڈھیل) جس سے نفع ہو اُس کی
 سختی بھی برداشت کی جاتی ہے۔
 دو دریا۔ (د- دریا) (د- صف) دادا کا۔ دادا سے متعلق۔ دادا کا رشتہ دار۔
 دو دریا شسر۔ دو دریا شسر۔ دو دریا شسر۔ بیوی یا شوہر کا دادا۔
 دو دریا ساس۔ بیوی یا شوہر کی دادی۔

ط-د

در۔ (ف- بیچ) اندر۔ میں۔
 در آمد۔ (۱) اندر آنا (۲) اندرون ملک آنے والی بیرونی اشیاء (۲) (انگ)
 (Import) (Import)
 در آمد برآمد۔ (ف-۱- مٹ) (۱) آنا جانا۔ آمد رفت (۲) اندرون ملک آنے
 اور جانے والی چیزیں۔ (انگ) (Import Export)
 در آمد برآمد کے دن۔ تبدیلی موسم کے ایام۔ موسم بدلنے کے دن۔
 در آمد ہونا۔ (۱) آنا۔ پہنچنا۔ داخل ہونا (۲) آمدنی ہونی (۳) باہر سے آنے
 والی اشیاء کا اندرون ملک میں آنا۔
 در آنا۔ (۱- محاورہ) اندر آنا۔ داخل ہونا۔
 در آنجا۔ (ف) اس جگہ میں۔ وہاں۔
 در آں حالیکہ۔ (ف) اُس صورت میں۔ اُس حال میں۔ حالانکہ۔
 در آ جا رہ۔ (ف-۱- مذ) شکمی۔ پٹیا۔
 در اصل۔ (ف) اصل میں۔ واقعی۔
 در انداز۔ (ف-۱- مذ) (۱) دو آدمیوں میں لڑائی کر دینے والا (۲) بدگو۔
 چٹھل خور۔
 در اندازی۔ (ف-۱- مٹ) (۱) دو آدمیوں میں لڑائی کر دینا (۲) بدگوئی۔
 چٹھل خوری (۳) بے جا مخالفت۔
 در آئی۔ (ف-۱- مٹ) انداز۔ گفتگو۔ بات چیت شروع کرنا۔ مرکبات
 میں جیسے ہر در رانی وغیرہ۔
 در آیں ولا۔ (ف) اس اثناء میں۔ اس دوران میں۔
 در باب۔ (ف) (۱) نسبت۔ بابت (۲) سبب۔

دو ڈی۔ (ف-۱- مذ) چھوٹا دروازہ۔
 دو ڈی۔ (ف-۱- مذ) خرگوش کا ڈربہ۔

د-د

در۔ (ف-۱- مذ) (۱) دروازہ۔ پھاٹک۔ چوکھٹ۔
 در بختہ۔ (ف-۱- مذ) دروازے کے اندر چھوٹا دروازہ۔
 در بندر۔ (مٹ۔ صف) (۱) آوارہ (۲) سرگشتہ (۳) ہر ایک کے دروازے پر
 در بند پھرنا۔ (۱- محاورہ) آوارہ پھرنا۔ سرگرداں ہونا۔ کہیں ٹھکانا نہ ہونا۔
 در بر۔ (ف-۱- مذ) پہن کر۔

دُر بارہ - (ف) نسبت - بابت۔
 دُر بستہ - (ن) صفت) بندھا ہوا، جکڑا ہوا۔
 دُر بردہ - (ن) (۱) خیمہ طور پر پوشیدہ (۲) غائبانہ پیٹھ پیچھے۔
 دُر لیے - (ن) (۱) گھات میں (۲) خواہاں پیچھے۔
 دُر لے آزار - (ن) صفت) تکلیف پہنچانے کے خیال میں، صدمہ پہنچانے کا خواہاں۔
 دُر لے جان - (ن) - ع) صفت) کسی کی جان لینے کے لیے اسکے پیچھے لگا ہونا۔
 دُر لیے ہونا - (۱) - ع) مادہ بھیجا کرنا۔ گھات میں ہونا۔
 دُر پیش - (۱) - ع) سامنے، رُو برُو۔ آگے (۲) زیر بحث۔ زیر تجویز۔
 دُر پیش آنا - (۱) - ع) مادہ) لاحق ہونا۔ واسطہ پڑنا۔
 دُر حالیکہ - (ن) اس صورت میں۔ اس حال میں۔ یہ لحاظ کر کے۔
 دُر حقیقت - (ن) حقیقت میں۔ اصل میں۔
 دُر دست - (۱) - ع) قبضہ میں۔
 دُر عمل کوشش ہر سچے خواہی پوش (ن) پیش) اعمال اچھے ہونا لازم ہے۔
 لباس چاہے کیسا ہی ہو۔
 دُر کار - (ن) صفت) ضروری، مطلوب۔
 دُر کار ہونا - (ن) صفت) مطلوب ہونا۔
 دُر کار خیر حاجت بیج استخارہ نیست - (ن) پیش) اچھے کام میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔
 دُر کنار - (ن) صفت) علاوہ (۲) جدا۔ الگ (۲) نسل میں ہم نسل۔
 دُر گرفت - (ن) صفت) (۱) قبضہ میں (۲) پکڑ میں۔
 دُر گور - (ن) صفت) (۱) لب مرگ (۲) مرلین جو کچھ مرے کا جہان ہو۔
 دُر لانا - (ن) صفت) (۱) اندیا نیچے لانا (۲) شامل کرنا۔
 دُر میان - (ن) - ا) - مذ) (۱) بیچ - وسط (۲) بیچ میں۔ وسط میں (۳) سامنے خیال میں (۴) دوران میں۔ میں متعلق۔ اندر۔
 دُر میان آنا - (۱) - ع) مادہ) (۱) بیچ میں پڑنا (۲) واقعہ جہا (۳) مداخلت کرنا۔
 دُر میان دینا - (۱) - ع) مادہ) (۱) صنایع دینا۔ بیچ میں ڈالنا۔
 دُر میان لانا - (۱) - ع) مادہ) (۱) بیچ میں لانا۔ گفتگو میں ذکر کرنا۔ پیش کرنا۔
 دُر میانی - (ن) صفت) (۱) بیچ کا جو بیچ میں آجائے (۲) معمولی۔ اچھا (۳) اندرونی۔ اندکا (۴) جو اندر ہو (۵) صلح کرانے والا۔
 دُر و بست - (ن) - ا) - مذ) بالکل - تمام۔ انتظام۔
 دُر یافت - (۱) - ع) نقیض - تحقیق - ٹوہ (۲) جانچ پڑتال۔
 دُر یافت طلب امر - (ن) - ا) - مذ) پوچھنے والی بات۔
 دُر یافت کرنا - (۱) - ع) مادہ) تحقیق کرنا۔ معلوم کرنا۔ پتا لگانا۔ کھوج لگانا استفسار کرنا۔ پوچھنا۔
 دُر یافت گندہ - (ن) - ا) - مذ) دریافت کرنے والا نقیض کرنے والا۔
 دُریش - اس میں۔
 دُریش اثنا - اسی عرصے میں۔
 دُریش چہ شک - (ن) - ع) مادہ) اس میں کیا شک ہے۔
 دُریش صورت - (ن) - ا) - مذ) اس صورت میں۔ اس حالت میں۔

دُر - (۱) - مذ) (۱) نرغ - بھاؤ (۲) عزت - آبرو۔ قدر۔
 دُر پڑنا - (۱) - ع) مادہ) نرغ مقرر کرنا۔ قیمت مقرر کرنا۔
 دُر - (ن) - ص) صفت) خراب۔ بُرا۔ بد قسمت۔ گھٹیا (۲) دُر ہٹ۔ پُرے ہٹ۔ کلہر تختیر (۳) زیادہ (ن) (۱) کھوٹی بات۔ بُری بات۔ بدگامی۔ بد زبانی (۲) بد لکام۔ مُنہ پھٹ۔ مُنہ کا پھوٹنا۔ دریدہ دہن۔
 دُر دُر کرنا - (۱) - ع) مادہ) دھتکارنا۔
 دُر دُر پھٹ کرنا - (۱) - ع) مادہ) لعنت ملامت کرنا۔ دھتکارنا۔
 دُر دُر ہونا - (۱) - ع) مادہ) (۱) دھتکار پڑنا (۲) نکالا جانا (۳) نفرت کرنا۔
 دُر کامی - (۱) - ع) صفت) بد چلن۔ بدکار۔
 دُر کند - (۱) - ع) صفت) (۱) مٹا ہونے۔ بد۔ بد بُو۔ محضنت۔
 دُر مٹی - (۱) - ع) صفت) (۱) کوڑھ مغز (۲) بے وقوف۔ نادان (۳) احمق (۴) بُری سمجھ والا۔
 دُر مونسے - (کلہر عقالت) دُر ہو کم بنت۔
 دُر - (ن) - ع) (۱) - مذ) موتی۔ گوہر (۲) کان میں پہننے کا ایک زیور۔
 دُر افشال - (ن) - ع) - ف) صفت) (۱) موتی بھرنے والا (۲) خوش بیان۔
 دُر افشانی - (ن) - ا) - مذ) (۱) موتی بھیرنا (۲) خوش بیانی۔
 دُر بار - (ن) - ع) - ف) - ا) - مذ) موتی برسانے والا۔
 دُر بچہ - (ن) - ع) - ف) - ا) - مذ) کان میں پہننے کا ایک موتی۔ گوشوارہ۔
 دُر خوش آب - (ن) - ع) - ف) - ا) - مذ) بہت قیمتی موتی (۲) عمدہ شعر۔
 دُر دانہ - (ن) - ع) - ف) - ا) - مذ) موتی کا ایک دانہ۔
 دُر ریز - (ن) - ع) - ف) - ا) - مذ) (۱) موتی بھیرنے والا (۲) خوش بیان۔
 دُر ریزی - خوش بیانی۔
 دُر شہوار - (ن) - ع) - ف) - ا) - صفت) (۱) بہت بڑا موتی (۲) بادشاہوں کے قابل موتی۔
 دُر نا سفتر - (ن) - ع) - ف) - ا) - صفت) (۱) بغیر سُوران کے موتی (۲) کنواری موتی دو مشیزہ۔
 دُر نا باب - (ن) - ع) - ف) - ا) - صفت) (۱) بے مثل موتی (۲) فرزند ارجمند۔
 دُر نجف - (ن) - ع) - ف) - ا) - مذ) (۱) ایک قسم کا سفید پتھر (۲) نجیب - شریف۔ اصلی نسلی سید۔
 دُر نیم - (ن) - ع) - ف) - ا) - مذ) وہ موتی جو سیب کا پیٹ چاک کر کے نکالتے ہیں۔
 دُر یکتا - (ن) - ع) - ف) - ا) - مذ) ایکلا موتی۔
 دُر آ - (ن) - ع) - ف) - ا) - مذ) (۱) گھنٹہ۔ گھنٹی۔ جرس۔
 دُر آ - (ن) - ع) - ف) - ا) - مذ) آقا۔ مالک۔
 دُر آج - (ن) - ع) - ف) - ا) - مذ) تیرہ۔
 دُر آڑ - (ن) - ع) - ف) - ا) - مذ) (۱) شگاف۔ درز۔ رخسہ۔
 دُر آڑ - (ن) - ع) - ف) - ا) - مذ) (۱) لہا۔ طویل (۲) پھیلا ہوا (۳) میز یا الماری کا لمبا خانہ جسے کھینچ کر نکالا جاتا ہے۔
 دُر آڑ دست - (ن) - ع) - ف) - ا) - مذ) (۱) لمبے ہاتھوں والا (۲) ظالم۔ سفاک۔ زبردست۔

دراز دوستی - (ف-ا-مش) علمِ دہم - بے انصافی - زبردستی -

دراز قد - (ف-صفت) بے قد والا - طویل قامت -

دراز کرتا - (مص مرکب) پھیلانا -

دراز گوش - (ف-صفت) (۱) گدھا (۲) خرگوش -

دراز نفسی - (ف-ا-مش) (۱) بہت کہنا - کلام کو طول دینا (۲) سانس کو روکنا - دم بڑھانا -

دراز ہونا - (ا-محاورہ) لیٹنا - سونا -

درازی - (د-را-زی) (ف-ا-مش) لمبائی - طوالت -

دراک - (د-ر-راک) (ع-صفت) ذہین - ہشیار - بڑی سمجھ بوجھ والا - بات کی تہ پانے والا -

دراں - (د-راں) (ف-صفت) پھاڑنے والا -

دراٹا - (د-را-ٹا) (و-مص) (۱) بے دھڑک چلے آنا (۲) بغیر اجازت کسی کے گھر میں داخل ہونا (۳) [صفت] بے دھڑک - بے خوف بے خطر - بلا اجازت -

دراستی - (د-را-سٹی) (ف-ا-مش) گھاس کاٹنے کا ادارہ -

دراستی پڑنا - (ا-محاورہ) فضولوں کی کٹائی شروع ہونا -

دراٹنی - (د-را-نی) (ف-ا-مش) ایک افغان قبیلہ -

دراوڑ - (د-را-وڑ) (س-ا-مش) ہندوستان کے قدیم باشندے جو جنوب میں آباد ہیں -

دراہم - (د-را-ہم) (ع-ا-مش) (۱) مذہب کی جمع -

دراہی - (ا-مش) آسانی - حکومت (ف) -

درایت - (و-را-یت) (ع-ا-مش) عقل - سمجھ - دانش - حدیث (وہ اصول جن کا مقصد کسی روایت کو عقل طور پر رکھنا ہے -

دربار - (د-ر-بار) (ف-ا-مش) (۱) بادشاہ کی مجلسِ تہن (۲) شاہی عدالت یا کچری (۳) بادشاہوں کی ملاقات (۴) وہ مکان جہاں بادشاہوں کی مجلس ہو (۵) آستانہ - بارگاہ - محل - قصر (۶) محاضری - حاضر باشی -

مجلس جو بڑے افسر سرکاری طور پر منعقد کریں (۷) امرتس میں سکھوں کا مشہور و معروف مذہبی مقام -

دربار باندھنا - (ا-محاورہ) رشوت دینا - رشوت دے کر کام نکالنا -

دربار برفخاست ہونا - (ا-محاورہ) دربار ختم ہونا -

دربار خاص - (ف-ع-مذ) وہ دربار جس میں امراء و رؤساء حاضر ہوں یا وہ عمارت جس میں اس قسم کا دربار لگے (۲) ملاقات شاہی -

دربار خداوندی - (ف-صفت) بارگاہِ الہی - خدا کے سامنے -

دربار واری کرنا - (ا-محاورہ) (۱) سخت خوشامد کرنا (۲) محاضری دینا - محاضری باشی -

دربار رسالت - (ف-ع-مذ) حضور نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس

دربار عام - (ف-ع-ا-مش) (۱) مذہبی مجلس جس میں عام لوگوں کو اپنی فریاد پیش کرنے کی اجازت ہو -

دربار کرنا - (ا-محاورہ) (۱) بادشاہ کا وزیروں اور امیروں کا سلام لینا (۲) عدالت کرنا - اجلاس کرنا (۳) مصاحبت کرنا (۴) حاضر باشی کرنا -

دربار لگنا - (ا-محاورہ) (۱) مجراٹوں کا مجلس میں اکٹھا ہونا (۲) بھیر با جمع ہونا -

دربار معیاف کرنا - (ا-محاورہ) دربار سے غیر حاضر ہونے کی اجازت دینا -

دربار موقوف رکھنا - (ا-محاورہ) بادشاہ کا دربار نہ لگانا -

درباری - (د-ر-با-ری) (ف-ا-مش) (۱) ملازمان شاہی - سلام کرنے والے (۲) ندیم - مصاحب - دربار سے نسبت رکھنے والا -

درباری زبان - (ف-ا-مش) (۱) وہ زبان جو دربار عدالت میں بولی جائے (۲) فصیح اور شائستہ زبان -

دربان - (د-ر-بان) (ف-ا-مش) چوکیدار - پہرے دار - سنتری -

دربانی - (د-ر-با-نی) (ف-ا-مش) پہرہ داری - چوکیداری -

دربند - (د-ر-بند) (ف-ا-مش) (۱) وہ پہاڑی درہ جس سے گزرتا بہت مشکل ہو (۲) وہ سڑک جس پر ڈاکے پڑیں (۳) وہ علاقہ جو سرحد کے قریب واقع ہو اور وہاں حفاظتی فوج رکھی جائے (۴) قلعہ کا دروازہ -

دربندی - (د-ر-بن-دی) (ف-ا-مش) (۱) تلاشی سے پہلے مکان کے دروازے بند کر دینا (۲) قید - حراست (۳) فیکٹری کو مزدوروں کی فوجی کے خلاف بند کر دینا -

(۴) وہ - ا-مش) گاؤں کے مختلف زرخوں کی فہرست (۵) زرخ جن پر مالگذاری کی تجویز ہو (۶) فصل کی قیمت مقرر کرنا -

دربندی کرنا - (ا-محاورہ) تلاشی کے پہلے کسی جگہ یا مکان کا محاصرہ کر لینا -

دربہشت - (ف-ا-مش) ایک قسم کی مٹھائی - شیرینی -

درپن - (د-ر-پن) (س-ا-مش) (۱) آئینہ - آئینہ (۲) ایک وزن -

درپنچ - (ع-ا-مش) (۱) تختہ - لکھائی (۲) وہ چیز جس پر لکھا جائے (۳) تحریر جس کو لپیٹا جائے -

درپنچ کرنا - (ا-محاورہ) شامل فہرست کرنا - رجسٹر پر چھٹانا -

درپنچ - (د-ر-پنچ) (ع-ا-مش) (۱) راہ (۲) میزک (۳) دراز - میز کا خانہ (۴) سیرٹی کا ڈنڈا (۴) مرتبہ -

درپنچ - (ع-ا-مش) (۱) مذہب زور رکھنے کا ڈبہ -

درپجات - (د-ر-جا-ت) (ع-ا-مش) (۱) مذہب درجہ کی جمع -

درپجن - (د-ر-جن) (ا-ر-ا-مش) (۱) بارہ (۲) بارہ کا مجموعہ - ایک جنس کی بارہ چیزیں (۲) انگریزی ڈون (Dozen) کا بگڑا ہوا -

درپجن - (ف-صفت) بڑا آدمی - دشمن -

درپجرہ - (د-ر-جرہ) (ع-ا-مش) (۱) سیرٹی (۲) قدم (۳) چھت - منزل (۴) چھوٹا (۵) کمرہ - کوٹھڑی (۶) تماشا گاہ کا ایک حصہ (۷) قسم - نوع -

(۸) مرتبہ - رتبہ (۹) عہدہ - منصب (۱۰) جماعت - زمرہ (۱۱) منٹ - دقیقہ (۱۲) کلاس -

درپجرہ آرتنا - (ا-محاورہ) ایک جماعت نیچے ہو جانا (سکول میں) (۲) ہر گھنٹے میں درجہ اشتعال - (ع-ف-صفت) وہ درجہ یا مقام جس پر پہنچ کر کوئی خاص مادہ مشتعل ہو جائے -

درپجرہ بدرجہ - (ع-ف) رفتہ رفتہ - آہستہ آہستہ - ترتیب وار -

درپجرہ برابر ہونا - (ا-محاورہ) ایک جسی عزت یا قدر ہونا -

درپجرہ بندی - (ع-ف-ا-مش) خاص درجہ یا مقام متعین ہونا -

(۷) چیزوں کو قسم دار کرنا۔
 درجہ کوٹنا - (۱) محاورہ) تنزیل ہونا۔
 درجہ دینا - (۱) محاورہ) ترقی دینا۔
 درجہ کرنا - (۱) عزت دینا - (۲) ترقی دینا۔
 درجہ گھٹانا - (۱) محاورہ) تنزیل کرنا۔
 درجہ بلنا - (۱) محاورہ) مرتبہ حاصل ہونا۔
 درجہ دار - (ع. ف.) (۱) سلسلہ دار (۲) رتبے کے مطابق (۳) درجہ بدرجہ۔
 درجہ ہونا - (۱) محاورہ) عزت ہونا۔ قدر ہونا (۲) گت ہونا۔ بے عزتی ہونا۔

درخت - (د. رخت) (ف. ا. مذ) پھل، شجر، بنال، پھل۔
 درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے۔ (۱) مثل) انسان اپنے عمل کردار سے پہچانا جاتا ہے۔ ہر چیز اس کے پھل سے عیاں ہوتی ہے۔
 درخت بوئے تھے آم کے ہو گئے بھول - (۱) مثل) نفع کی امید تھی مگر نقصان ہوا۔

درخش - (ف. مذ) چمک، روشنی، بجلی۔
 درختال - (د. رخ، شال) (ف. صغ) چمکتا ہوا (۲) تاباں، روشن۔
 درخشانی - (د. رخ، شانی) (ف. ا. صغ) چمک، دمک، روشنی۔
 درخشندہ - (د. رخ، شند) (ف. صغ) چمکتا ہوا، تاباں، نورانی۔
 درخواسست - (د. رخ، واسست) (ف. ا. صغ) (۱) التماس، گزارش (۲) عرضی عرضداشت، سوال (۳) خواست گاری، آرزو، تمنا۔
 درخواسست دینا - (۱) محاورہ) (۱) عرضی پھینکا (۲) تلاش کرنا۔
 درخواسست گندہ - (ف. ا. مذ) عرضی پھینچنے والا، درخواست کرنے والا
 درخور - (د. رخ، حور) (ف. صغ) (۱) لائق، قابل، سزاوار (۲) رسائی پہنچ، دخل۔
 درخور اعتنا - (ف. صغ) توجہ کے قابل۔

درد - (ف. ا. مذ) (۱) تکلیف، دکھ (۲) ٹیس، ہوک، کسک (۳) افسوس، سوز و گداز (۴) رحم، ترس، ہمدردی (۵) غم، رنج (۶) خواہ میر پتولی کا تعلق۔
 درد آتشا - (ف. صغ) درد سے واقف، ہم درد۔
 درد آگین - (ف. صغ) (۱) درد سے بھرا ہوا، (۲) تکلیف دہ۔
 درد آلود - (ف. صغ) (۱) گمزدہ (۲) جسے سخت تکلیف ہو (۳) تکلیف دہ۔

درد آمیز - (ف. صغ) برقت، الگیز، دردناک، قابلِ رحم۔
 درد آنا - (۱) محاورہ) (۱) افسوس آنا، رحم آنا، ترس آنا۔
 درد اٹھنا - (۱) محاورہ) کسی عضو میں درد محسوس ہونا، ٹیس پڑنا۔
 درد انگیز - (ف. صغ) (۱) درد پیدا کرنے والا (۲) درد آمیز۔
 درد پٹانا - (۱) محاورہ) ہمدردی کرنا، دکھ میں شریک ہونا۔
 درد پوچھنا - (۱) محاورہ) ہمدردی کرنا، تنگساری کرنا۔
 درد دھانا - (۱) محاورہ) درد رنج ہونا۔
 درد دینا - (۱) محاورہ) کسی کی تکلیف کو محسوس کرنا۔
 درد پھینا - (۱) محاورہ) درد کو کم کرنا یا رنج کرنا۔

درد خوردہ - (ف. ا. مذ) وہ جسے تکلیف ہو۔
 درد دل - (ف. ا. مذ) رنج، غم، دلی صدمہ۔
 درد دوس - (ف. ا. مذ) غم زدہ، مصیبت زدہ۔
 درد زہ - (ف. ا. مذ) بچہ پیدا ہونے کا درد، سینے کا درد۔
 درد سہ - (ف. ا. مذ) (۱) سہرا کا درد (۲) تکلیف (۳) وقت، مشکل۔
 درد سہرا گھٹنا - (۱) محاورہ) (۱) سہرا کا درد شروع ہونا (۲) تکلیف برداشت ہونا (۳) ذمہ داری لینا۔
 درد سہرا جانا - (۱) محاورہ) (۱) جھگڑا مٹ جانا (۲) مصیبت رنج ہو جانا۔
 (۳) سہرا کا درد جاتا رہنا۔

درد سہرا خریدنا - (۱) محاورہ) کسی جھگڑے میں پڑنا۔
 درد سہرا دینا - (۱) محاورہ) (۱) دق کرنا، تنگ کرنا، تکلیف دینا۔
 درد سہرا کرنا - (۱) محاورہ) محنت یا شہقت کرنا، کسی کام کی انجام دہی کی فکر کرنا۔
 درد سہرا ٹول لینا - (۱) محاورہ) درد سہری ٹول لینا، کوئی کام اپنے ذمہ لینا۔
 درد سہری - (۱) محاورہ) (۱) تکلیف، مصیبت (۲) محنت، مشقت کا کام۔
 درد شریک - (ف. صغ) (۱) ہمدرد (۲) غم گسار، غم خوار۔
 درد قویج - (ف. ا. مذ) پسلی کا درد۔

درد کرنا - (۱) محاورہ) (۱) تکلیف ہونا (۲) ہمدردی کرنا۔
 درد کھانا - (۱) محاورہ) رحم کھانا، ترس کھانا، افسوس کرنا۔
 درد کے مارے - (۱) درد یا تکلیف کی وجہ سے (۲) مصیبت زدہ۔
 درد لگیں - (ف. صغ) تکلیف دہ۔
 درد لا دوا - (ف. ا. مذ) ایسی تکلیف جس کا کوئی علاج نہ ہو۔
 درد لگنا - (۱) محاورہ) درد ہونا، بچہ سینے کی تکلیف شروع ہونا۔
 درد مند - (ف. صغ) ہمدرد، غم گسار، غم خوار۔
 درد مندی - (ف. ا. صغ) (۱) ہمدردی، تنگساری، رحم دلی، ترس۔
 دردناک - (ف. صغ) (۱) درد بھرا (۲) رنج دہ۔
 دردیں لگنا - (۱) محاورہ) درد زہ ہونا، بچہ سینے کی تکلیف میں مبتلا ہونا۔
 درد - (ف. ا. صغ) (۱) صغ) (۱) پٹھٹ، پٹھٹ۔

درد آشام یا درد کش - (ف. صغ) (۱) پٹھٹ پینے والا (۲) خوش چین (۳) بڑا شرمیلی۔
 درد خوار - (ف. صغ) (۱) عزیز، عاجز، بے چارہ۔
 دردوا - (د. ر. وا) (ف. ا. صغ) افسوس، آہ، پائی۔
 دردوار - (د. ر. وا) (ف. صغ) (۱) مڑھا مڑھا، پسا ہوا، کٹا یادلا ہوا، دانہ دار۔
 (۲) دھندلا دار۔

درد زہ - (ف. ا. صغ) (۱) دناؤ، شگاف (۲) چہرے اور کھوپڑی کی پٹیوں کا جوڑ (۳) سیون، کپڑے کی کھوپڑی، جوبلی ہوتی ہو۔
 درد زین - (د. ز. زین) (ف. ا. صغ) (۱) درد زہ کی بیوی، کپڑا سینے کا کام کرنے والی عورت (د. ز. زین) گندھی۔
 درد زنی - (د. ز. زنی) (ف. ا. مذ) کپڑا سینے کا کام کرنے والا مرد۔
 درد زنی کی سونے کھی ٹاٹ میں صبی خواب میں - (دیش) انسان کو ہر کام کرنا چاہیے چاہے ادنیٰ ہو چاہے اعلیٰ۔

دُرس - ذرع - ۱۔ مذ (۱) سبق - تعلیم (۲) وعظ - نصیحت - بیکچر - کتھا۔
 دُرس دینا - (۱) معاوہ (۲) دُرس پڑھانا - سبق دینا۔
 دُرس کہنا - (۱) معاوہ (۲) وعظ کہنا - نصیحت کرنا (۳) بیکچر دینا - سبق پڑھانا۔
 دُرس دُندریس - (۱) ذ - ف - مذ (۲) پڑھنا پڑھانا۔
 دُرس ہونا - (۱) معاوہ (۲) سبق پڑھایا جانا - پڑھائی ہونا۔
 دُرس - (۱) مذ - (۲) نظارہ (۳) درشن - دیدار۔
 دُرس دکھانا - (۱) معاوہ (۲) دیدار کرنا - درشن دینا۔
 دُرسست - (دُ - رُست) (۱) ذ - ف - صفت (۲) ٹھیک - بجا - صحیح - موزوں۔
 دُرسست آنا - دُرسست ہونا - (۱) معاوہ (۲) ٹھیک ہونا - صحیح ہونا۔
 موزوں ہونا - مناسب ہونا (۳) عاید ہونا۔
 دُرسست بنانا - (۱) معاوہ (۲) ٹھیک بنانا - گوشائی کرنا۔
 دُرسست فرمانا - (۱) معاوہ (۲) (تعلیم) ٹھیک بات کہنا - صحیح کہنا۔
 دُرسست پیمان - (۱) ذ - ف - صفت (۲) وعدے کا پکا۔
 دُرسست رہنا - بجا رہنا - ٹھیک رہنا۔
 دُرسست کرنا - (۱) معاوہ (۲) ٹھیک کرنا - سیدھا کرنا (۳) سوارنا - سعادنا
 (۳) گوشائی کرنا - تادیب کرنا (۴) انتظام کرنا (۵) مرتت کرنا۔
 دُرسست لگانا - (۱) معاوہ (۲) قاعدے سے لگانا (۳) سہانا (۴) قرینے
 سے لگانا۔
 دُرسست ہو رہنا - (۱) معاوہ (۲) آراستہ ہونا - بناؤ سنگار کر لینا۔
 (۳) تیار ہو جانا۔
 دُرسست ہے - (۱) ذ - ف - صفت (۲) ٹھیک ہے - بجا ہے۔
 دُرسستی - (دُ - رُست) (۱) ذ - ف - صفت (۲) راستبازی (۳) معقولیت
 موزونیت - صحت - تعلیم - اصلاح (۳) مرتت - ترتیب - تربیم -
 (۴) گوشائی - تادیب۔
 دُرسی - (۱) ذ - ف - صفت (۲) پڑھانے سے متعلق (۳) نصیاتی کتب۔
 دُرسیات - (دُ - رُسی) (۱) ذ - ف - صفت (۲) اسکولوں میں پڑھنے پڑھانے
 سے متعلق اشیاء - کتابیں۔
 دُرشست - (دُ - رُشت) (۱) ذ - ف - صفت (۲) سخت - کھردرا - بجاری
 دُرشست مزاج - (۱) ذ - ف - صفت (۲) تند مزاج۔
 دُرشستی - (دُ - رُش) (۱) ذ - ف - صفت (۲) سختی - بے رحمی - بد خلقی۔
 دُرشستی سے پیش آنا - (۱) معاوہ (۲) سختی سے پیش آنا - بد خلقی سے ملنا۔
 دُرشن - (دُ - رُشن) (۱) ذ - ف - صفت (۲) دیدار کرنا (۳) ملاقات ہونا - ملنا۔
 دُرشن تھوڑے نام بہت - (دُرشن) شہرت تو بہت ہے مگر حقیقت
 کچھ بھی نہیں۔
 دُرشن کے فیئال لوجھی - (دُرشن) دیکھنے کو آنکھیں ترستی ہیں۔
 دُرشنا - (۱) ذ - ف - صفت (۲) نظر - روشن۔
 دُرشنی - (دُ - رُش) (۱) ذ - ف - صفت (۲) قابل دیدار (۳) خوبصورت - حسین۔
 دُرشنی (۳) فوراً قابل ادراکی (۴) عمدہ ملاقات۔
 دُرشنی جوان - (۱) ذ - ف - صفت (۲) خوبصورت آدمی - خوبصورت مگر بڑل جوان۔

دُرشنی ہنڈی - (۱) ذ - ف - صفت (۲) ہنڈی جس کا روپیہ ہنڈی دکھاتے
 ہی بل جائے۔
 دُرش - (۱) ذ - ف - صفت (۲) لباس - پوشاک (۳) زردہ جو لڑائی کے
 وقت پہنتے تھے۔
 دُرش پوس - (۱) ذ - ف - صفت (۲) زردہ پوش - سیاہی۔
 دُرش - (۱) ذ - ف - صفت (۲) کپڑا یا زمین ناپنے کا آلہ - گز۔
 دُرش - (دُ - رُش) (۱) ذ - ف - صفت (۲) جھنڈا - پرچم - علم - پھریہ (۳) رومال
 جو سر پر لڑائی کے وقت باندھے لیتے تھے (۴) روشنی - چمک - دمک۔
 دُرش کی کوئی چکنے والی چیز۔
 دُرش کا ویانی - (۱) ذ - ف - صفت (۲) ضحاک بادشاہ کے ہمد میں ایران کے
 لوہار کا وہ کا انقلابی جھنڈا (۳) سگوشہ کپڑا جو جھنڈے کے سرے پر
 لگایا جاتا تھا (۴) ایران کے ساسانی بادشاہوں کا جھنڈا۔
 دُرش - (۱) ذ - ف - صفت (۲) عقل - سمجھ - تیز - واقفیت (۳) دخل
 دُرش دینا - (۱) معاوہ (۲) ذ - ف - صفت (۳) مزاحمت کرنا
 (۴) دست اندازی کرنا۔
 دُرش ہونا - (۱) معاوہ (۲) واقفیت ہونا - علم ہونا - ہمارت ہونا۔
 دُرشکات - (۱) ذ - ف - صفت (۲) دوزخ کی منزلیں۔
 دُرشکنا - (۱) ذ - ف - صفت (۲) چھٹنا - شکاف پڑنا۔
 دُرشکاہ - (۱) ذ - ف - صفت (۲) آستانہ - چوکھٹ (۳) خانقاہ - روضہ
 مزار - دربار شاہی - خدا کا دربار۔
 دُرشکا - (دُ - رُشکا) (۱) ذ - ف - صفت (۲) ہنڈیوں کی دیوی بھوانی (۳)
 بد صورت عورت۔
 دُرشکت - (دُ - رُشکت) (۱) ذ - ف - صفت (۲) خراب حالت - پتلا حال۔
 دُرشکت کرنا - دُرشکت بنانا - (۱) معاوہ (۲) بڑی حالت کرنا - ذلیل
 کرنا - مارنا پینٹنا۔
 دُرشکتی - (دُ - رُشکت) (۱) ذ - ف - صفت (۲) بڑی حالت - پتلا حال - انجام بد۔
 دُرشکتی - (دُ - رُشکت) (۱) ذ - ف - صفت (۲) معافی - چشم پوشی (۳) ٹال مٹول۔
 انخاص (۳) جھلانا - بسرانا - چھوڑنا۔
 دُرشکت کرنا - (۱) معاوہ (۲) چشم پوشی کرنا (۳) باز آنا (۴) معاف رکھنا۔
 (۵) جھلانا۔
 دُرشکت کرنا - (۱) معاوہ (۲) باز آنا (۳) معاف رکھنا۔
 دُرشکت - (دُ - رُشکت) (۱) ذ - ف - صفت (۲) ملاقات۔
 دُرشن (۱) معاوہ (۲) دیدار کرنا (۳) ملاقات ہونا - ملنا۔
 دُرشن تھوڑے نام بہت - (دُرشن) شہرت تو بہت ہے مگر حقیقت
 کچھ بھی نہیں۔
 دُرشن کے فیئال لوجھی - (دُرشن) دیکھنے کو آنکھیں ترستی ہیں۔
 دُرشنا - (۱) ذ - ف - صفت (۲) نظر - روشن۔
 دُرشنی - (دُ - رُش) (۱) ذ - ف - صفت (۲) قابل دیدار (۳) خوبصورت - حسین۔
 دُرشنی (۳) فوراً قابل ادراکی (۴) عمدہ ملاقات۔
 دُرشنی جوان - (۱) ذ - ف - صفت (۲) خوبصورت آدمی - خوبصورت مگر بڑل جوان۔

دَر مَہ - (ق-۱-مٹ) تخواہ۔
 دَر مِٹ (داس) - (ہ-۱-مڈ) نکوڑوڑی کوٹنے کا آکر۔
 دَر مِٹن - (ف-۱-مڈ) دیکھے در مان جس کا یہ مخفف ہے۔
 دَر مِٹھی - (ق-صفت) بڑی شکل والا۔ بد صورت۔
 دَر نگی - (ف-۱-مٹ) وحشت۔ غلم۔ درندہ پن۔
 دَر نڈہ - (ڈ-رن-دہ) (ف-صفت) (۱) پھارنے والا۔ چیرنے والا۔ خونخوار۔
 پھاڑ لگانے والا جانور۔
 دَر ننگ - (ڈ-رننگ) (ف-۱-مٹ) دیر۔ توقف۔ تاخیر۔ وقفہ۔
 دَر دَر - (د-د-ر) (ف-۱-مڈ) فصل کا لگانا۔ کٹائی۔
 دَر دَازہ - (دَر-وا-زہ) (ف-۱-مڈ) ڈر۔ کسی عمارت میں داخل ہونے کا راستہ۔ پھانگ۔
 دَر دَازہ بند ہو جانا - (۱-محاورہ) (۱) وقت ختم ہو جانا (۲) ملاقات کا وقت نہ رہنا (۳) گھر پر نہ ہونا۔
 دَر دَازہ بھیر ٹانا - (۱-محاورہ) (۱) دروازے کے پٹ بند کر دینا لیکن کٹدی نہ لگانا۔
 دَر دَازہ تنگ ہونا - (۱-محاورہ) (۱) رزق کم ہونا۔ آمدن کم ہونا۔
 دَر دَازہ تینا کرنا - (۱-محاورہ) (۱) دروازہ چھننا۔ دروازہ بند کر دینا۔
 دَر دَازہ ٹھوکن - (۱-محاورہ) (۱) دروازے پر ہاتھ مارنا تاکہ وہ کھل جائے۔
 دَر دَازہ چھیننا - (۱-محاورہ) (۱) اینٹیں چن کر دروازے کو بند کر دینا۔
 دَر دَازہ زنجیر کرنا - (۱-محاورہ) (۱) دروازے کی زنجیر لگانا۔ دروازہ بند کرنا۔
 دَر دَازہ کھٹکھٹانا - (۱-محاورہ) (۱) دروازہ پر کوئی چیز مارنا تاکہ وہ کھولا جائے (۲) مانگنا۔ درخواست کرنا۔
 دَر دَازہ کھلانا - (۱-محاورہ) (۱) دروازے کی زنجیر اترنا (۲) آمدنی بڑھ جانا آمدنی ہونا۔
 دَر دَازہ معمور ہونا - (۱-محاورہ) (۱) دروازہ بند ہونا۔
 دَر دَازے پر مٹی برات - سمہن کو لگی ہرگاس - (۱-مٹ) عین وقت پر گھبراہٹ۔
 دَر دَازے پر کھڑا رہنا - (۱-محاورہ) (۱) منتظر رہنا (۲) ہر بانی کا ایزدار۔
 دَر دَازے پر پانچھی بھومنا - (۱-محاورہ) (۱) دولت مند ہونا۔
 دَر دَازے کی مٹی لے ڈالنا - (۱-محاورہ) (۱) بار بار آنا۔ پھیرے کرنا۔ سخت تعاضل کرنا۔
 دَر دَازے - (ڈ-رود) (ف-۱-مڈ) (۱) صلوات۔ رحمت (۲) تحسین و آفرین۔ شاہاش - (۳) استغفار (۴) تعریف۔ سلام۔ دُعا (۵) تسبیح اصطلاحاً وہ دُعا و سلام جو حضور نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑھا جائے۔
 دَر دَوی بھجنا - (۱-محاورہ) (۱) صلوات پڑھنا (۲) تعریف کرنا۔ تحسین کرنا (۳) کسی خوبصورت شے کو دیکھ کر خدا کو یاد کرنا (۴) بجز کی تعریف کرنا۔
 دَر دَوی پڑھنے کے قابل - (۱-صفت) (۱) بنائیت نقیس (۲) قابل تعریف۔
 دَر دَوی - (ڈ-رود) (ف-۱-مڈ) (۱) درز کی جج۔ بہت سے شکاف ہزاروں دروٹ - (ڈ-روٹ) (ف-۱-مڈ) جھوٹ۔ گدب۔ ہبتان۔

دَر دَوی بانی - (ف-۱-صفت) جھوٹ کا تانا بانا بننا۔ جھوٹی بات بنانا۔
 دَر دَوی برگردن راوی - (۱-مٹ) جھوٹ کا گناہ اصل بیان کنندہ کے سر ہوتا ہے۔
 دَر دَوی بیانی - (ف-۱-مٹ) جھوٹ ہونا۔
 دَر دَوی خلتی - (ف-۱-مٹ) جھوٹی قسم۔ قانون کے خلاف جھوٹ ہونا۔
 دَر دَوی کو فروغ نہیں - (۱-مٹ) جھوٹ میں کامیابی نہیں ہوتی۔
 دَر دَوی گو - (۱-صفت) جھوٹا۔ کاذب۔
 دَر دَوی گوراں نظر نہ باشد - (ف-۱-مٹ) جھوٹے کا حافظہ نہیں ہوتا۔
 جھوٹ بولنے والا اپنے بیان کی خود تردید کر دیتا ہے۔
 دَر دَوی کو تم بر فرستے تو - (ف-۱-مٹ) جب کوئی واضح طور پر جھوٹ بولے تو اس وقت کہتے ہیں۔
 دَر دَوی گوئی (بانی) - (ف-۱-مٹ) جھوٹ بولنا۔ ہبتان تراش۔
 دَر دَوی مصلحت امیتر بہ از راستی فتنہ انگیز - (ف-۱-مٹ) مقولہ جس سچ سے فائدہ اسے اس سے وہ جھوٹ جس سے فائدہ ہے بہتر ہے۔
 دَر دَوی - (ڈ-رون) (ف-۱-مڈ) (۱) اندرونی حصہ (۲) دل باطن (۳) اینٹ۔ نیچ۔ اندر۔
 دَر دَوی بین - (ف-۱-صفت) دل کی کیفیت دیکھنے والا۔
 دَر دَوی پٹی - (ف-۱-مٹ) داخلی کیفیت یا حالت کی تحقیق۔
 دَر دَوی خانہ - (ف-۱-مڈ) (۱) گھر کا اندرونی حصہ (۲) زنا خانہ (۳) اندر ہی اندر دَر دَوی - (ڈ-رون) (ف-۱-مڈ) وہ زخم یا پھوڑا جس کا منہ اندر کی طرف ہو۔ باطن۔ اندرونی (ق)۔
 دَر دَوی - (ڈ-رون) (ف-۱-مڈ) سیمنہ۔ دل۔
 دَر دَوی - (ڈ-رون) (ف-۱-مڈ) (۱) فقیر بھکاری (۲) فقیر۔ صاحب معرفت (۳) خدارسیدہ (۴) عزیز۔ غریب۔ غمناک۔
 دَر دَوی خصلت - (ف-۱-صفت) سادہ مزاج۔ قلندر۔
 دَر دَوی خیال - (ف-۱-صفت) نیک خیال۔
 دَر دَوی صفت - (ف-۱-صفت) وہ شخص جس میں درویشوں کی کسی خوبیوں ہوں۔
 دَر دَوی صفت باش، کلاہ بترمی دار - (ف-۱-مٹ) انسان میں اچھی صفیوں ہونی چاہئیں۔ لباس چاہے کیسا ہی ہو۔
 دَر دَوی ہر گناہ کہ شب آمد سرائے اوسمت - (مٹ) فقیر جہاں پڑ رہے وہی اس کا گھر ہے۔
 دَر دَوی شانہ - (ڈ-رون) (ف-۱-مڈ) عزیمانہ۔ درویشوں کی مانند۔
 دَر دَوی شتی - (ڈ-رون) (ف-۱-مٹ) (۱) درویشوں کا طریق (۲) فقیروں کی طرح رہنا (۳) عزیز۔ غمناک۔
 دَر دَوی - (ڈ-رون) (ف-۱-مڈ) (۱) دو پہاڑوں کے درمیان کا راستہ (۲) گھاٹی۔
 دَر دَوی - (ڈ-رون) (ف-۱-مڈ) (۱) چڑھے کا چابک۔ تازیمانہ۔ کوڑا۔
 دَر دَوی پڑنا - (۱-محاورہ) (۱) کوڑے لگانا۔ شرعی سزا عائد ہونا۔
 دَر دَوی (لگانا) مارنا - (۱-محاورہ) (۱) کوڑے مارنا۔
 دَر دَوی - (ف-۱-صفت) گڑبڑ۔ بتر بتر الٹ پلٹ۔ گڈ مڈ۔ وبال۔ غلط ملط۔
 دَر دَوی ہر دم ہونا - (۱-محاورہ) (۱) الٹ پلٹ ہونا۔ غلط ملط ہونا۔ گڑبڑ ہونا۔

دست افسوس ملنا۔ (۱- محاورہ) پھیتانا۔ افسوس کرنا۔
 دست افتخار۔ (ف- صفت) تاپنے والا۔ رقاص۔
 دست افکن۔ (ف- مذ) نوکر (۲) نشانی (۳) مشغول (۴) کمزور۔
 دست انداز۔ (ف- صفت) کسی کام میں دخل دینے والا۔ خلل انداز
 (۲) مزاحم۔
 دست اندازی۔ (ف- ۱- صفت) (۱) دخل۔ مداخلت (۲)
 مزاحمت۔ تفریق۔
 دست اندازی کرنا۔ (۱- محاورہ) (۱) ہاتھ ڈالنا۔ مداخلت کرنا۔ دخل دینا۔
 (۲) مزاحمت کرنا۔ رکاوٹ ڈالنا۔ تفریق کرنا۔
 دست باوپیما۔ (ف- ۱- مذ) ہاتھ جو ہوا میں بے جیسے شرابی کا ہاتھ۔
 دست باز۔ (ف- صفت) (۱) جالاک۔ ہوشیار۔ کاریگر (۲) وہ جو سب
 کچھ فروغ کر دے (۳) شطرنج کا کھلاڑی۔
 دست بدست۔ (ف- صفت) ہاتھوں کا ہتھ۔ بہت جلد۔
 دست بدعا۔ (ف- صفت) دُعا کے لیے ہاتھ اٹھانے ہوئے۔
 دست بگرد۔ (ف- ۱- صفت) (۱) غبن۔ چائنٹ (۲) ٹوٹ مار۔ ٹوٹ
 کھسوٹ (۳) تصرف بے جا۔
 دست بردار۔ (ف- صفت) چھوڑنے والا۔ باز آنے والا۔
 دست برداری۔ (ف- ۱- صفت) (۱) علیحدگی۔ برطرفی (۲) چھوڑ دینا۔
 ترک کرنا۔
 دست بستہ۔ (ف- صفت) ہاتھ باندھ کر۔ ہاتھ جوڑ کر۔ منت کر کے۔
 دست بقبضہ ہونا۔ (۱- محاورہ) لڑنے کے لیے تیار ہونا۔
 دست بفرح۔ (ف- ۱- مذ) (۱) چھوٹا پھیلا۔ ہینڈ بیگ۔
 دست بکار دل بیار۔ (ف- مثل) کام کرتے ہوئے بھی محبوب کی یاد
 دل میں رہتی ہے۔ ایسی چیز کا خیال کسی وقت دل سے دور نہیں ہوتا۔
 دست بند۔ (ف- ۱- مذ) (۱) موتی اور جوہرات کا پتھا جو عورتیں ہاتھوں
 میں پہنتی ہیں (۲) سونے چاندی کے زیور جو ہاتھ کی پشت پر پہنا جاتا ہے۔
 (۳) ایک قسم کے گڑے (۴) ایک نایاب جس میں ہاتھ بلائے ہیں۔
 دست بندھک۔ (۵- صفت) رہن۔ گرد۔
 دست بوس ہونا۔ (۱- محاورہ) (۱) ہاتھ چومنا (۲) ملاقات کرنا۔
 دست بیع ہونا۔ (۱- محاورہ) مرید ہونا۔ چیلنا بننا۔
 دست باچہ ہونا۔ (۱- محاورہ) سٹ پٹانا۔ گھبراتا۔
 دست باگ۔ (ف- ۱- مذ) (۱) رومال (۲) تولیا۔ انگوچھا۔
 دست پٹنا۔ (ف- ۱- مذ) پٹنا۔
 دست پرورد (بگوردہ) (ف- صفت) ہاتھ کا بلا ہوا۔ ناز و نعمت کا بلا ہوا
 دست پیرا۔ (ف- ۱- مذ) کہتین۔
 دست پیمان۔ (ف- ۱- مذ) ہر شخص۔ وہ نقد جنس یا زیور جو شب عروسی
 دہاؤں کو بطور تحفہ دیتا ہے۔
 دست تاسف ملنا۔ (۱- محاورہ) افسوس سے ہاتھ ملنا۔ افسوس کرنا۔
 دست ہی۔ (ف- ۱- مذ) خالی ہاتھ۔
 دست جامہ۔ (ف- ۱- مذ) مکمل خلعت۔

دست جالاک۔ (ف- صفت) چور۔ آنکھ بھا کر جڑا لینے والا۔
 دست چالاک۔ (ف- ۱- صفت) (۱) ہاتھ کی جالاک۔ چوری۔ ہاتھ کی صفائی
 (۲) داخل کرنے کی پھرتی۔ (۳) مخاند جنگ (۴) دو شخصوں کی لڑائی۔
 دست چھوٹا۔ (۱- محاورہ) دست آنا۔ اہمال لگنا۔
 دست خیر۔ غالب۔
 دست خط۔ دستخط۔ (ف- ۱- مذ) اپنے ہاتھ کی علامت یا نشانی۔
 اپنے ہاتھ سے لکھا ہوا نام۔
 دست خطر۔ (ف- ۱- مذ) ہانے کا ہاتھ جس پر بہت سال لگا ہو (۲) اپنی اونٹنوں کا
 دست خطی۔ (ف- صفت) ہاتھ کا لکھا ہوا۔ ہاتھ کے دستخطوں کے ساتھ۔
 دست خود دیان خود زون مثل۔ خود مختار ہوتے ہوئے نہ کھانا اپنا
 نقصان آپ کرنا ہے۔ اپنا ہاتھ اور اپنا منہ سے خوب کھاؤ۔
 دست دراز۔ (ف- صفت) (۱) بے باگ۔ بند (۲) ہر کسی کو دکھ دینے
 والا (۳) ظالم (۴) بے رحم۔
 دست درازی۔ (ف- ۱- صفت) (۱) مار پیٹ (۲) بے باکی (۳)
 مداخلت بے جا۔ بے جا دخل اندازی (۴) زیادتی (۵) ظلم و ستم۔
 دست دُعا دراز کرنا۔ (۱- محاورہ) دُعا کے لیے ہاتھ اٹھانا۔
 دست دہی۔ (ف- ۱- صفت) (۱) ادا۔ مدد (۲) اقرار یا وعدہ پر ہاتھ دینا۔
 دست راست۔ (ف- ۱) دایاں ہاتھ (۲) فرج کا دایاں بازو (۳)
 حامی۔ مددگار۔
 دست رس۔ دسترس۔ (ف- ۱- مذ) (۱) پہنچ۔ رسائی (۲)
 بساط۔ حیثیت۔ طاقت۔ قدرت۔ مقدور۔ قابلیت (۳) ہمارت بشق
 چاہک دستی (۴) مدد (۵) صفت) طاقت میں (۶) ملامت۔
 دسترس پہنچنا (پھلنا) (۱- محاورہ) قابو پانا۔ قابو چلنا۔
 دسترس حاصل ہونا۔ (۱- محاورہ) ہمارت ہونا۔ مشق ہونا۔ رسائی ہونا۔
 دست رنگین۔ (ف- ۱- صفت) ہندی لگے ہاتھ۔
 دست سب۔ (ف- ۱- مذ) مکمل ذرہ۔
 دست سوال دراز کرنا۔ (۱- محاورہ) مانگنے کے لیے ہاتھ بڑھانا۔ اپنی
 حاجت کہی کے سامنے لانا۔
 دست شانہ۔ (ف- ۱- مذ) ایک قسم کی گنگھی جس سے ریشم صاف
 کرتے ہیں۔
 دست شفا۔ (ف- ۱- مذ) وہ ہاتھ جو صحت بخشنے۔ اچھے طبیب
 کے لیے کہتے ہیں۔
 دست شفا پھیرنا۔ (۱- محاورہ) اچھا کر دینا۔
 دست شفقت۔ (ف- ۱- مذ) (۱) پیار کا ہاتھ (۲) ہرمانی عنایت و شفقت
 دست طلب۔ (ف- ۱- مذ) مانگنا۔ حاجت۔ ضرورت۔
 دست طلب دراز کرنا۔ (۱- محاورہ) مانگنے کے لیے ہاتھ بڑھانا۔
 دست غیب۔ (ف- ۱- مذ) وہ آمدنی جو بیکری یا ظاہری ذریعے کے
 حاصل ہو (۲) حرام کی کمانی۔
 دست فروش۔ (ف- ۱- مذ) وہ شخص جو چیزیں ہاتھ میں لے کر بازار
 میں بیچتا پھرے۔ خوردہ فروش۔

دست قدرت - (ف - ۱ - صفت) طاقت - قدرت - مقدور - اختیار - بس - قابو۔

دست کار - (ف - صفت) کارگر (۲) وہ شخص جس کے ہاتھ میں کوئی ہنر ہو۔

دست کاری - (ف - ۱ - مثنیٰ) (۱) ہنر - کاری گری - ہاتھ کا کام (۲) عمل چترچی - چابک دستی۔

دست کش - (ف - صفت) (۱) کسی کام سے ہاتھ کھینچ لینے والا۔ الگ ہو جانے والا (۲) باز رہنے والا۔ تعلق نہ رکھنے والا۔

دست کسی - (ف - ۱ - مثنیٰ) ہاتھ کھینچ لینا۔ تعلق نہ رکھنا۔

دست کوتاہ کرنا - (۱ - محاورہ) ہاتھ روک لینا۔

دست گاہ - (ف - ۱ - مثنیٰ) (۱) طاقت - قدرت (۲) ہمارے ہمتی۔

دست گرداں - (ف - صفت) بغیر تحریر کے قرضہ - بغیر کسی لکھت کے ادا کر۔

دست گرفتہ - (ف - صفت) جس کی مدد کی جائے۔

دست گیر - (ف - صفت) مددگار - حامی۔

دست گیری - (ف - ۱ - مثنیٰ) مدد - معاونت - حمایت۔

دست لگنا - (۱ - محاورہ) متواتر دست آنا۔ اسپہال ہونا۔

دست بال - (ف - ۱ - مذکر) برتن صاف کرنے کا کپڑا۔ صافی - رومال۔

دست نگر - (ف - صفت) محتاج - حاجت مند۔

دست و بعل ہونا - (۱ - محاورہ) بھل گیا ہونا۔

دست و پا بھول جانا - (۱ - محاورہ) ہوش و حواس گم ہو جانا۔

دست و پا نکشتہ - (ف - صفت) بے پار و مددگار - کمزور - ناتواں۔

دست و پایا مارنا - (۱ - محاورہ) جان توڑ کوشش کرنا۔

دست و گریباں ہو جانا - (۱ - محاورہ) لڑنا - ہاتھ پائی کرنا۔

دست یاب ہونا - (۱ - محاورہ) حاصل ہونا۔ وصول ہونا۔ میسر آنا۔

دست یاری - (۱ - مذکر) مدد - امداد (۲) بچاؤ - حفاظت - قوت - طاقت۔

دستا - (دس - تالی) (۱) مذکر (۱) رومال - تولیہ - سنجاف (۲) ایک کپڑا جو پگڑی کے گرد باندھتے ہیں (۳) جھت (۳) لوہے کا ایک گول اوزار جو کوٹنے کے کام آتا ہے۔

اپنے مطلب کے موافق ہوتی ہے۔

دستال - (دس - تالی) (ف - ۱ - مذکر) (۱) نغمہ - آواز (۲) ساز کی چابی (۳) دھوکا دینا - فریب (۴) رسم کے باپ ڈال کا لقب۔

دستا نہ - (دس - تالی) (ف - ۱ - مذکر) (۱) ہاتھ میں سینے کا بٹنا ہوا یا چمڑے کا غلاف (۲) ایک لوہے کی زردہ جو ہاتھ پر پہنتے تھے (۳) تلوار کا قبضہ۔

دستا نہ مارنا - چھی ہوئی تلوار کو ہاتھ سے الگ کرنا۔

دستا ویز - (ف - ۱ - مثنیٰ) تنگ - قبلاہ - نوشتہ (۲) کسی امر کا تحریری ثبوت (۳) وہ سند جس سے اپنا حق ثابت کر سکیں۔

دستہ - (دس - تالی) (ف - ۱ - مذکر) دسترخوان۔

دستہ خوان - (دس - ترخان) (ف - ۱ - مذکر) رومال یا چادر جس پر کھانا پختہ ہیں۔

دستہ خوان بچھانے میں سو عیب نہ بچھانے میں ایک عیب (۱) مثل (۱) اگر لوگوں کو کھانا کھلایا جائے تو سیکڑوں نقص نکالتے ہیں۔ اگر نہ کھلایا جائے تو ایک ہی نقص ہے نہ کھلانا (کنجوسی)۔

دستہ خوان بڑھانا - (۱ - محاورہ) کھانے کے بعد دسترخوان اٹھانا۔

دستہ خوان چھیننا - دسترخوان پر کھانے کی چیزیں رکھی جانا۔

دستہ خوان کا توبہ توبہ کرنا - (۱ - محاورہ) جب کھانا چھینا ہوا ہو اور کوئی چھینے پر نہ بیٹھے تو کہتے ہیں۔

دستہ خوان کرنا - (۱ - محاورہ) بزرگان دین کی بناؤ کرنا۔ فاتحہ لکھنا کھلونا۔

دستہ خوان کی بلی - (۱ - مثنیٰ) (۱) کام پور۔ جو کام سے تومی چرائے، لیکن کھانے پر موجود ہو۔

دستہ خوان کی کھٹی - (۱ - مثنیٰ) ہر وقت کھانے پر موجود ہونے والا۔

رہن بلیا جھان۔

دستک - (دس - نیک) (ف - ۱ - مثنیٰ) (۱) تالی - ہاتھ پر ہاتھ مارنا (۲) کسی چیز پر ہاتھ مارنا کہ آواز نکلے (۳) دستہ (۴) پر دانہ زراہداری (۵) محصول۔

(۶) مہری کاغذ جو حاکم کے حکم سے لکھا جائے (۷) سن - وارنٹ - حکم نامہ (۸) فیس جو سمنوں کی تعمیل کے لیے دی جائے (۹) کیشن - دستوری (۱۰) قرضی۔

دستک آنا - (۱ - محاورہ) قرضی کا حکم نامہ آنا۔

دستک باندھنا - (۱ - محاورہ) (۱) محصول لگانا (۲) بے ضرورت خرچ کرنا۔

دستک دینا - (۱ - محاورہ) (۱) تالی بجانا (۲) لگانا (۳) دروازہ کھٹ کھٹانا۔

دستک لگانا - (۱ - محاورہ) (۱) محصول لگانا (۲) سمن دروازے پر چھپا کرنا۔

دستکی - (دس - تالی) (ف - ۱ - مثنیٰ) (۱) پاکٹ بک - یادداشت کی چھوٹی کتاب یا ڈائری (۲) شکرے بازوں کا دستہ۔

دستکی - (دست - تالی) (ف - ۱ - مذکر) (۱) دستہ دار لوٹا (۲) تلوار کا تسمہ جو دستے سے لٹکا ہوتا ہے (۳) وہ چیز جو گرفت کے واسطے لگی ہو۔ دستہ (۴) کپڑا جو تھے میں منہال سے بالشت تک باندھتے ہیں (۵) دستا نے جس پر شکاری پرند کو بٹھاتے ہیں (۶) تھیلا جس میں کاغذات رکھتے ہیں۔

دستنبو - (دس - تالی) (ف - ۱ - مذکر) (۱) چھوٹا پھل جو خوشبو کے لیے ہاتھ میں رکھتے ہیں (۲) میرزا غالب کا تحریر کردہ مشہور رسالہ۔

دِسَنّا - (دِس - نّا) (ق - ص) دکھائی دینا۔
دِسْوال - (دِس - وال) (ہ - ص) م (۱) نویں کے بعد کا درجہ۔ دس سے متعلق (۲) میت کے دسواں دن کا فاتحہ۔
دِسوانا - (دِس - وانا) (ہ - ۱) (ذ) دسواں حصہ جو مالگذاری کے ساتھ جمع کیا جائے۔
دِسْوَترا - (ہ - ص) دس فیصدی۔
دِسُوکھ - (د - سُوکھ) (ہ - ۱) (ذ) بچہ کا بچہ پیدا ہونے کے دسویں دن ہنانا۔
دِسوکھا - (د - سُوکھا) (ہ - ۱) (ذ) (۱) پرندوں کا پر بھاڑنا (۲) اڑنے کا پر۔
دِسوسوں - (ہ - دِسوسوں) (ہ - ص) پورے باتام۔ دس کے دس۔
دِسوسوں انگلیاں دِسوسوں پچراخ - (ا - س) بہت ہمزند۔
دِسوسوں - (دِس - سوں) (ہ - ص) م (۱) نویں کے بعد کی دس سے تعلق رکھنے والی (۲) اسکول کی دسویں جماعت (۳) محترم کی دسویں تاریخ۔
دِسْہرا - (دَس - ہرا) (ہ - ۱) (ذ) ہندوؤں کا تہوار جو اسوج کی دسویں تاریخ کو راجہ رام چندر جی کے دادن پر فوج پانے کی یاد میں منایا جاتا ہے۔
دِسِسہ - (ع - ۱) (ذ) سازش - مکاری - فریب۔
دِسِسہ کار - (ع - ف - ص) سازش کرنے والا۔ مکار۔ فریبی۔

دش

دَشّا - (س - ا - مِث) (۱) کیفیت - حالت - گت (۲) زندگی کا زمانہ (۳) عمر (۴) قسمت (۵) کپڑے کا کنارہ - حاشیہ (۶) دل - جی۔
دَشْت - (د - ف - ۱) (ذ) (۱) جنگل - صحرا - بیابان - میدان (۲) شطرنج کا تختہ۔ (۳) خشک نافر۔
دَشْت پَہچا - (ف - ا - مِث) جنگلوں میں پھیرنے والا - بادیدہ گرد۔
دَشْت پَہچائی - (ف - ا - مِث) جنگلوں میں پھرنا - صحرا نوردی۔
دَشْت سُواراں - (ف - ا - مِث) وہ لوگ جو صحرا میں زندگی بسر کرتے ہیں۔
دَشْت کربلا - (ف - ا - مِث) (۱) وہ صحرا جہاں امام حسین شہید ہوئے۔ (۲) سخت مصیبت کی جگہ۔
دَشْت رُگرد (گرد نوردی) - (ف - ص) جنگلوں میں پھرنے والا۔
دَشْت نوردی - (ف - ا - مِث) جنگلوں میں پھرنا۔ در بدر پھرنا۔
دَشْت - (ق - ۱ - مِث) نظر۔
دَشْتی - (دش - تی) (ق - ص) جنگلی - صحرائی۔
دَشْتِٹ - (س - ص) م (۱) خواب (۲) بد چلن (۳) شرر (۴) قصور دار (۵) بھوٹا (۶) بے رحم (۷) ضدی - کینہ - رذیل۔
دَشْمَن - (دش - من) (ف - ۱) (ذ) (۱) بی - مخالف - بدخواہ - عدو (۲) دشمن اگر قوی رہے۔
دَشْمَن اگر قوی ست - نیچیان قوی تر است - (ف - مِث) دشمن اگر

دَسْتوانہ - (دس - رت) (د - وا - نہ) (ف - ۱) (ذ) ہاتھ میں پھیننے کا زیور - انگلیں۔
دَسْتور - (دس - تور) (ف - ۱) (ذ) (۱) طرز - روش - آئین - قانون (۳) رسم و رواج (۴) عادت - ڈھنگ (۵) کمیشن - دستوری (۶) پارسیوں کا مذہبی پیشوا (۷) بنیادی اصول جن کے مطابق ملکی قوانین بنائے جاتے ہیں - (انگ) (Constitution)
دَسْتورِ اَعْمَل - (ع - ۱) (ذ) (۱) قانون - قاعدہ (۲) رواج (۳) قانون کی کتاب (۴) سلطنت کا طریقہ اصول۔
دَسْتورِ باندھنا - (ا - محاورہ) (۱) قاعدہ مقرر کرنا - قانون پھرانا (۲) معمول باندھنا۔
دَسْتورِ جاری کرنا - (ا - محاورہ) (۱) قاعدہ مقرر کرنا (۲) رواج ڈالنا یا نکلانا۔
دَسْتورِ ہونا - (ا - محاورہ) رواج ہونا۔
دَسْتوری - (دس - توری) (ف - ۱ - مِث) (۱) فیس - کمیشن - دلالی (۲) اجازت -خصت (۳) وزارت۔
دَسْتوری حکومت - آئینی حکومت۔ ملکی آئین یا دستور کے مطابق ملک کا نظربش
دَسْتوری کا شکل لگیا - (ا - مِث) سزا پائی - اپنی سزا کو پہنچ گیا۔
دَسْتوریہ - (ع - ۱ - مِث) مجلس دستور ساز - آئین و قوانین بنانے والی مجلس - اسمبلی۔
دَسْتہ - (دس - ہ) (ف - ۱ - مِث) (۱) لکڑی کا ٹکڑا جو کسی اوزار کے ساتھ پکڑنے کے لیے لگا ہو (۲) کوئی چیز جو کسی دوسری چیز کے ساتھ پکڑنے کے لیے لگی ہو (۳) فوج کا ایک حصہ (۴) کاغذ کے چوبیس تختوں کی اکائی (۶) ۲۴ تیروں کا ٹکڑا (۷) ایک قسم کی گھنڈی جو اکثر قبیلہ پر لگاتے ہیں (۸) سہتاف (۹) پھولوں کا پتی (۱۰) آہنی نوکیل (۱۱) لوگوں کا گروہ۔
دَسْتہ ریشمان - (ف - ۱ - مِث) ریل جس پر دھاگا پھیلتے ہیں۔
دَسْتہ ساعت - (ف - ۱ - مِث) گھڑی کے بارہ نشان۔
دَسْتہ گل - (ف - ۱ - مِث) گل دستہ۔
دَسْتی - (دس - تی) (ق - ص) (۱) ہاتھ کے متعلق (۲) ہاتھ کے ذریعہ ہاتھ سے (۳) مشعل - فلیتہ (۴) چھوٹا دستہ - چھوٹا حصہ (۵) کشتی کا ایک داؤں (۶) چھوٹا سا قلمدان جو ہاتھ میں رہے (۷) پیالہ یا مٹی کا گلاس جس کے دو دستے ہوتے ہیں (۸) چھوٹا رو مال (۹) مدد - امداد۔
دَسْتی پھینچنا - (ا - محاورہ) کسی کے ہاتھ کچھ پھینچنا۔
دَسْتی پروانہ - (ف - ۱ - مِث) جو پروانہ کسی کے ہاتھ بھج جائے۔
دَسْتی کرنا - (ا - محاورہ) ہاتھ سے ہاتھ ملا کر زور کرنا۔
دَسْتیاں پھونکنا - (ا - محاورہ) مشعلیں جھلانا۔
دَسْم - (دَسْم - ہ) (ص) م (۱) دسواں - عشرہ۔
دَسْمبر - (December) (د - س - م) (ہ - ۱) (ذ) انگلی - مہینہ گریزی سال کا بارہواں مہینہ جو اکتیس دن کا ہوتا ہے۔
دَسْمی - (دس - می) (ہ - ۱ - مِث) قمری پھیننے کی دسویں تاریخ۔
دَسْمَن - (ق - ۱ - مِث) دانت۔

دُعا سے کرز جہاں - (دُعائے) ایک دُعا جو کسی کے سفر جانے پر پڑھتے ہیں
 دُعا دینا - (۱) - (مجادرہ) برکت کے الفاظ کہنا - اسیس دینا -
 دُعا سلام کہنا - (۱) - (مجادرہ) کسی کے ذریعہ دُعائے پیتا م بیچنا -
 دُعا قبول ہونا - (۱) - (مجادرہ) مُراد پوری ہونا -
 دُعا کرنا - (۱) - (مجادرہ) خدا سے درخواست کرنا - دُعا مانگنا -
 دُعا گو - (ع - ف - صفت) (۱) دُعا کرنے والا (۲) خیر خواہ بہتری چاہنے والا
 دُعا لگنا - (۱) - (مجادرہ) دُعا کا اثر ہونا -
 دُعا مانگنا - (۱) - (مجادرہ) خدا سے بھلائی کی التجا کرنا -
 دُعا مستجاب ہونا - (۱) - (مجادرہ) دُعا قبول ہونا -
 دُعا وی - (ع - ا - مذ) دعویٰ کی جمع -
 دُعا سے خیر - (ع - ف - ا - مثن) اچھی دُعا - فاتحہ - ایصالِ ثواب -
 دُعا سے دولت - کسی کے لیے ترقی اور اقبال کی دُعا -
 دُعا سے عاقبت - (ع - ا - مثن) صحت و تندرستی کی دُعا -
 دُعا سے قنوت - دُعا جو نماز عشاء میں وتروں کی تیسری رکعت میں پڑھتے ہیں
 دُعا میں دینا - (۱) - (مجادرہ) کسی کے حق میں بہت سے کلمات خیر کہنا -
 دُعا ٹیہ - (دُعا - ای - یہ) (ع - صفت) دُعا سے منسوب -
 دُعاوت - (دُعا - وت) (ع - ا - مثن) (۱) کھانے کے واسطے بُلانا (۲)
 کسی مذہب کی طرف بُلانا (۳) کھانا ضیافت (۴) طلبی -
 دُعاوتِ اسلام - (ع - ا - مثن) کسی کو مسلمان ہونے کی ترغیب دینا -
 دُعاوتِ بر بُلانا - (۱) - (مجادرہ) کھانے پر بُلانا -
 دُعاوتِ جنگ - (ع - ف - ا - مثن) لڑائی کے لیے بُلانا - اعلانِ جنگ -
 دُعاوتِ دینا - (۱) - (مجادرہ) (۱) کھانے کے لیے بُلانا (۲) کھانا ضیافت
 (۳) طلبی -
 دُعاوتِ سمرقند - (ع - ف - ا - مثن) ایک دن پر تکلفِ دعوت - دوسرے
 دن فاتحہ -
 دُعاوتِ شہرازیہ - (ع - ف - ا - مثن) سادہ کھانا - بے تکلفی کی دعوت -
 دُعاوتِ کھنے کے لئے - (۱) - (مذ) دوسرے کے گھر کا کھانا -
 دُعاوتِ ولیمہ - (ع - ف - ا - مثن) وہ ضیافت جو مسلمانوں میں نکاح
 کے دو ایک دن بعد ہوتی ہے -
 دُعاوی - (دُعا - وا) (ع - ا - مذ) درخواست - خواہش - مطالبہ - مانگ -
 استحقاق (۱۷) استغنا (۱۸) دُعاوت -
 دُعاوی اٹھنا - (۱) - (مجادرہ) دُعا کے ساتھ ہونا یا جواب دیا جانا -
 دُعاوی باطل - (ع - ف - ا - مذ) ہٹوٹا دُعاوی -
 دُعاوی باندھنا - (۱) - (مجادرہ) دُعاوی کرنا - شرطیہ کوئی کام کرنے کا
 دُعاوی کرنا -
 دُعاوی پیش ہونا - (۱) - (مجادرہ) حاکم کے سامنے مطالبہ کا پیش ہونا -
 دُعاوی جمانا - (۱) - (مجادرہ) مقدمہ جمانا - دلیل قائم کرنا - ملکیت ظاہر کرنا -
 قبضہ جتانا -
 دُعاوی چلنا - (۱) - (مجادرہ) دُعا کے قابلِ سماعت ہونا -
 دُعاوتے خدائی - (ع - ا - مذ) خدا ہونے کا دُعاوی کرنا جیسے فرعون نے کیا تھا

زبردست ہے تو خدا جو چاہتا ہے اس سے بھی زبردست ہے -
 دشمنِ ایمان - (ع - ف - ن) (۱) جو کسی کے مذہب کو زبردستی بدلوانا چاہے
 (۲) جو کسی سے بددلیتی کرنا چاہے (۳) مشرک -
 دشمنِ جان (جانی) - (ف - صفت) جان کا دشمن - سخت دشمن -
 دشمنِ حیرت کُند جو ہر ماں باشد دوست - (ف - مقلول) اگر خدا ہر ماں
 نہ ہو تو دشمن کچھ نہیں کر سکتا -
 دشمن کو بھی خدا نصیب نہ کرے - (مقلول) انتہائی مصیبت کے
 وقت کہتے ہیں کہ اتنی بڑی مصیبت میں خدا دشمن کو بھی نہ ڈالے -
 دشمن کو کم نہ سمجھے - (۱) - (مثن) دشمن چاہے کتنا ہی حقیر کیوں نہ ہو اس
 کے طرف سے لاپرواہ نہیں ہونا چاہیے -
 دشمن کو نہ ہاں کا پیٹ - (۱) - (مثن) بھائیوں میں اگر دشمنی ہو جائے
 تو سخت ہوتی ہے -
 دشمن تو مالِ حقیر بولے چارہ شمر د - (ف - مثن) دشمن کو کبھی کر د
 اور حقیر نہ سمجھنا چاہیے -
 دشمنوں کی طبیعت ناساز ہے - (۱) - (مثن) خود بیمار ہیں -
 دشمنوں کے کان بہرے - (۱) - (مقلول) خدا نخواستہ -
 دشمن کی نگاہ سے - تیز نگاہ سے - غصے کی نظر سے -
 دشمنی - (دُش - م - ن - گی) (ق - ا - مثن) دشمنی -
 دشمنی - (دُش - م - ن) (ق - ا - مثن) بدخواہی - عداوت - مخالفت -
 دشمنی رکھنا - (۱) - (مجادرہ) دشمن ہونا - عداوت رکھنا - پیر رکھنا -
 دشمنی نکالنا - (۱) - (مجادرہ) دشمن کو تکلیف دینا - بدل لینا -
 دشنام - (دُش - نام) (ف - ا - مثن) گالی - گالی گوچ -
 دشنام طرازی کرنا - (۱) - (مجادرہ) گالی بکنا -
 دشمنہ - (دُش - نہ) (ف - ا - مذ) خنجر گٹاری -
 دشوار - (دُش - وار) (ف - صفت) مشکل - ٹھن - دُکھ - بھاری - سخت -
 دشوار پسند - (ف - صفت) وہ جو شکل اور دقیق باتوں کو پسند کرے -
 دشوار گزار - (ف - صفت) وہ راستہ یا جگہ جہاں سے گزرنا مشکل ہو -
 دشوار ہونا - مشکل ہونا -
 دشواری - (دُش - واری) (ف - ا - مثن) وقتِ مشکل - سختی -
 دشواری پڑنا - (۱) - (مجادرہ) وقت پڑنا - مشکل پڑنا -
 دشیا - (دُش - یا) (ق - ا - مذ) اچھے دن - مبارک دن -

د - ع

دُعا - (ع - ا - مثن) (۱) خدا سے مانگنا - التجا - التماس - استدعا (۲) دُعا کی عبادت
 (۳) مناجات - معذرت کی طلب - کسی کی بہتری کی خواہش - مُراد (۶)
 سلام - مبارک - اشیر باد - جمع : آدویدہ -
 دُعا لگنا - (۱) - (مجادرہ) دُعا کا اُٹ نتیجہ نکالنا -
 دُعا چلنا - (۱) - (مجادرہ) دُعا کا اثر ہونا -

دعویٰ دار - دعوئے دار - (ع-ف-صفت) (۱) ادعیٰ نالشی مستقیث فریادی - دادخواہ - حق طلب (۲) دشمن - رقیب - دعویٰ کرنے والا - دعوئے کرنا - (۱) محامدہ (۲) مطالبہ کرنا - نالشی کرنا - استغاثہ کرنا - درخواست کرنا (۲) اپنے آپ کو کسی شے کا مالک جتاننا - **دعویٰ مہر** - (ع-ف-۱) مذ-عورت کی طرف سے مہر کی رقم کا مطالبہ -

د-ع

دعنا - (ف-۱) - (صفت) (۱) دھوکا - فریب (۲) مکاری - بے ایمانی - **دعنا باز** - (ف-صفت) مکار - دھوکے باز - فریبی - **دعنا بازی** - (ف-۱) - (صفت) مکاری - **دعنا پیشہ** - (ف-صفت) (۱) دعنا باز مکار عیار (۲) معشوق کو بھی کہتے ہیں - **دعنا دینا** - (۱) محاورہ دھوکا دینا - فریب دینا - **دعنا شتعار** - (ف-۱) - (صفت) دھوکا دینے کا عادی - فریبی - مکار معشوق کو بھی کہتے ہیں - **دعنائی** - (د-ع-۱) - (صفت) داغ لگانے کی اُجرت - **دعندغا** - (د-ع-۱) - (د-ع-۱) - (صفت) (۱) ایک قسم کی چھوٹی تندیل (صفت) (۲) روشن - چمکتا ہوا - **دعندغانا** - (د-ع-۱) - (د-ع-۱) - (صفت) (۱) چمکانا - روشن ہونا (۲) سُرخ ہونا - دکھنا - **دعندغا ہٹ** - (د-ع-۱) - (د-ع-۱) - (صفت) (۱) چمک - دمک - (۲) سُرخ - تھما ہٹ - **دعندغمہ** - (د-ع-۱) - (د-ع-۱) - (صفت) (۱) خوف - ڈر - تشویش - خدشہ - کھٹکا (۲) گدگدی - **دعغل** - (د-ع-۱) - (د-ع-۱) - (صفت) (۱) مکر - فریب - عیب (۲) کھوٹا چاندی لگنے - **دعغنا** - (د-ع-۱) - (د-ع-۱) - (صفت) (۱) سر ہونا - چھوٹنا - بندوق یا توپ کا چلنا (۲) داغ دیا جانا (۳) پرکا لگنا - **دعوانا** - (د-ع-۱) - (د-ع-۱) - (صفت) (۱) کسی چیز کو داغ دلوانا (۲) کسی بندوق یا توپ کو چلوانا یا سر کرنا - **دعغیلا** - (د-ع-۱) - (د-ع-۱) - (صفت) (۱) داغ دار - چتی دار (۲) چوٹ لگایا اگر ہوا پھل (۳) عیب دار - دھوکے باز - مکار

د-ف

دَف - (ف-۱) - (د-ع-۱) - (صفت) (۱) ایک لائق سے بھانے والا ایک ساز - **دَف نواز** - (ف-۱) - (صفت) (۱) دَف نواز بھانے والا - **دَف** - (د-۱) - (د-ع-۱) - (صفت) (۱) گرمی - حرارت (۲) جوش - تیزی (۳) غصہ (۴) زیادتی - پرتھو -

دَف مَرْنَا - (۱) محاورہ (۱) جوش کم ہونا - تیزی ختم ہونا (۲) غصہ دور ہونا - **دَفَا تَر** - (د-ع-۱) - (ف-۱) - (صفت) (۱) مذ-دَفتر کی جمع - آفس - **دَفَاغ** - (ع-۱) - (د-ع-۱) - (صفت) (۱) مذ-روک - بچاؤ - حفاظت (انگ) (Defence) **دَفَالی** - (د-ع-۱) - (د-ع-۱) - (صفت) (۱) مذ-دَف بھانے والا - **دَفَان** - (د-ع-۱) - (د-ع-۱) - (صفت) (۱) مذ-دَف - دَفور - **دَفَان ہونا** - (۱) محاورہ (دَفور ہونا - دَف بھانے والا - **دَفَان** - (د-ع-۱) - (د-ع-۱) - (صفت) (۱) مذ-دَفینہ کی جمع - خزانے - **دَفتر** - (د-ع-۱) - (د-ع-۱) - (صفت) (۱) مذ-۱) کاغذ - حساب کتاب کے کاغذ - کچھری کے کاغذات (۲) بہت سے کاغذات جو گھٹے میں بندھے ہوں (۳) کتاب بھی - کاپی - رجسٹر (۴) مجموعہ حساب - مجموعہ اشعار (۵) وہ جگہ جہاں کسی عکس کے کاغذات یا کتابیں رکھی جائیں - (۶) وہ جگہ جہاں کسی عکس کے کاغذ یا کتابیں رکھی جائیں (۷) طومار (۸) لمبی کمانی - لمبا پوڑا خط (۹) حکم - سرستہ **دَفترِ اَعمال** - (ع-۱) - (د-ع-۱) - (صفت) (۱) مذ-اَعمال نامہ - وہ کتاب جس میں اعمال کی تفصیل درج ہو - **دَفترِ اَلطَّ جَانَا** - (۱) محاورہ (۱) سامان برباد ہونا - سخت نقصان ہونا - **دَفترِ بَرہم ہونا** - (۱) محاورہ (۱) دَفتر کے کاغذات کا بے ترتیب ہونا - **دَفترِ لے مَنی** - (ع-۱) - (د-ع-۱) - (صفت) (۱) مذ-فضول کاغذات - **دَفترِ تَیگرنا** - (۱) محاورہ (۱) ختم کرنا - مختصر کرنا - **دَفترِ تَیڑھانا** - (۱) محاورہ (۱) مشہور کرنا - شہرت دینا - **دَفترِ تَیخانہ** - (ع-۱) - (د-ع-۱) - (صفت) (۱) مذ-محافظ خانہ - وہ عکس جہاں سرکاری کاغذات محفوظ رہتے ہیں - **دَفترِ وار** - (ع-۱) - (د-ع-۱) - (صفت) (۱) ناظر مالیرہ - اکونٹنٹ جنرل - **دَفترِ روزگار** - روزگار دلانے کا ادارہ (انگ) (Employment Exchange) **دَفترِ کاٹ کر رکھ دینا** - (۱) محاورہ (۱) سب کا سب منسوخ کر دینا - **دَفترِ کھلنا** - (۱) محاورہ (۱) ضرورت سے زیادہ تفصیل کے ساتھ بیان دینا - **دَفترِ کھولنا** - (۱) دَفتر کا کام جاری کرنا (۲) نیا دَفتر بنانا (۳) سارا گڈنا ہوا فقہہ بیان کرنا - **دَفترِ گاؤ خور ہونا** - (۱) محاورہ (۱) دَفتر کا نیست دنا اور ہونا - کارخانہ بدہم برہم ہونا - **دَفترِ موقوفات** - (ع-۱) - (د-ع-۱) - (صفت) (۱) مذ-حساب کارہ - مالگداری کا دَفتر - **دَفترِ نگار (نویس)** - (ع-۱) - (د-ع-۱) - (صفت) (۱) دَفتر کا فنی - مَحرر - **دَفتری** - (د-ع-۱) - (د-ع-۱) - (صفت) (۱) مذ-دَفتر کو درست کرنے والا (۲) جلد بنانے والا (۳) چاندی سونے کے درختوں کا گھٹا - **دَفتری** - (د-ع-۱) - (د-ع-۱) - (صفت) (۱) مذ-دَفتر کے پٹھے (۲) کاغذ رکھنے کے پٹھے (۳) جولاہے کی کنگھی - **دَفترِ قلیہ** - (د-ع-۱) - (د-ع-۱) - (صفت) (۱) مذ-خراب پکا ہوا قلیہ - وہ قلیہ جس میں بہت سی چیزیں ملا کر بیکانی جائیں - **دَفغ** - (ع-۱) - (د-ع-۱) - (صفت) (۱) دَفور کرنا - بھٹانا - پُرسے کرنا (۲) دَفور کرنا - **دَفغِ الوقی** - (ع-۱) - (د-ع-۱) - (صفت) (۱) مذ-وقت ٹالنا - جیلے حوالے کرنا -

دفعدار - (دق - ف - ۱ - مذ) ۱) ایسی فوج کا ایک افسر جس کے ماتحت بھڑوڑی سر کھوڑ سوار فوج ہوتی ہے (۷) پتوکیداروں کا افسر۔
 دق دق دق - (دق - ف - ۱ - مذ) ۱) اعتراض کا جواب دینا۔
 دق دق - (دق - ف - ۱ - مذ) ۱) غم کو بھلانا۔ غم کو دور کرنا۔
 دق ہو گیا - (دق - ف - ۱ - مذ) ۱) دور ہونا۔ ہٹ جانا (۷) ذلیل ہونا۔ جلتے رہنا (۳) جلا جانا۔ رخصت ہونا۔ نکلنا۔
 دفعہ - (دق - ف - ۱ - مذ) ۱) ایک بار۔ ایک بارگی۔ فوراً (۲) ایک بارگی۔
 دفعہ - (دق - ف - ۱ - مذ) ۱) ایک بارگی۔ فوراً (۲) ایک بارگی۔
 دفعہ یا نمبر (۳) مجموعہ۔ جماعت۔ زمرہ۔ جمع۔ دفعات۔
 دفعہ (عامید کرنا) لگانا - (دق - ف - ۱ - مذ) ۱) محاورہ کوئی جرم قائم کرنا۔
 دفعیہ - (دق - ف - ۱ - مذ) ۱) توڑ۔ روک۔ علاج (۲) دفع کرنے کا تدبیر۔
 دقن - (دق - ف - ۱ - مذ) ۱) زمین میں چھپانا۔ گاڑنا (۲) گڑا ہوا۔ زمین میں چھپا ہوا۔
 دقن کرنا - (دق - ف - ۱ - مذ) ۱) زمین میں دبانا۔ گاڑنا۔ دفنانا۔ قبر میں رکھنا۔ تجزیہ و تھیں کرنا۔
 دفنانا - (دق - ف - ۱ - مذ) ۱) زمین میں دفن کرنا۔
 دفعینہ - (دق - ف - ۱ - مذ) ۱) دفن کیا جو مال۔ خزانہ۔ گڑا ہوا خزانہ (۲) دفن کی ہوئی شے۔

دقیانوسی خیال - پُرانا اور فرسودہ خیال۔ رجعت پرستی۔
 دقیق - (دق - ف - ۱ - مذ) ۱) نازک۔ کومل (۲) مشکل۔ بھٹن۔
 دقیقہ - (دق - ف - ۱ - مذ) ۱) کوئی بہت چھوٹی چیز (۲) معمولی بات۔
 خیف معاملہ (۳) لطیف سوال (۴) باریکی (۵) گھٹنے کا ساٹھوانا ہتھ منٹ۔ جمع۔ دقائق۔
 دقیقہ اٹھانہ رکھنا - دقیقہ فرو گذاشت نہ کرنا۔ (۱) محاورہ کس نہ چھوڑنا۔ سخت کوشش کرنا۔ سب کچھ کھردرنا۔
 دقیقہ رس۔ دقیقہ شناس - (دق - ف - ۱ - مذ) ۱) صفات۔ زود فہم۔ نکتہ سنج۔
 باریکی بین۔ تیز طبع۔ ہوشیار۔ زیرک۔

دک

دک - (دق - صف) بہت۔
 دک - (دق - ۱ - صف) سمت (۲) وسعت۔ کشادگی۔
 دکا - (دک - کا - ۱ - مذ) ۱) تاش میں دو کا پتہ۔
 دکال - (دق - ۱ - صف) خط۔
 دکان - (دک - کان - ۱ - صف) ۱) ہٹلی۔ ماٹ۔ سودا بیچنے کی جگہ بکری کی جگہ۔ فارسی اردو میں بلا تشدید مستعمل ہے۔
 دکان بڑھانا - (دق - محاورہ) دکان بند کرنا۔
 دکان جمننا - (دق - محاورہ) دکان قائم ہونا۔ دکان چلنا۔
 دکان چلنا - (دق - محاورہ) خوب بکری ہونا۔ خریداری ہونا۔ گرم بازاری ہونا۔
 دکان دار - (دق - صف) دکان کا مالک۔ تاجر۔
 دکان داری - (دق - صف) ۱) سودا بیچنے کا پیشہ (۲) چرب زبانی (۳) روپیہ بھرنے کا ارادہ۔
 دکان داری کی باتیں کرنا - (دق - محاورہ) چرب زبانی کرنا۔
 دکان کرنا - (دق - محاورہ) ایشیا بیچنا۔ بیچنے کا کام یا پیشہ کرنا۔
 دکان گرم ہونا - (دق - محاورہ) خوب بکری ہونا۔
 دکان لگنا - (دق - محاورہ) ۱) دکان لگنا (۲) بکری کے لیے چیزیں رکھی جانا۔
 دکا پنہ - (دک - کان - ۱ - صف) ۱) چھوٹی سی دکان۔
 دک بسانا - (دق - صف) دکھ مول لینا۔
 دکد - (دق - ۱ - صف) دکھ۔ مشکل۔ دقت کا بگڑا ہوا۔
 دکتور - (دک - ت - ۱ - صف) دک - توری - (دق - صف) ۱) ڈاکٹر طبیب۔ حکیم۔
 جراح (۲) علامہ۔ علمی خطاب۔
 دکڑا - (دک - ٹا - ۱ - صف) ۱) پے کا چوٹا حصہ۔ ڈمڑی۔ پھدام۔
 دکڑی - (دک - ٹی - ۱ - صف) ۱) دو کا پتہ۔ ڈکلی (۲) دو کھوڑوں کی بچی۔
 دکشا - (دک - ش - ۱ - صف) ۱) دکشا۔ دکشا۔ دکشا۔
 دکھ - (دک - ۱ - صف) ۱) دکھ۔ دکھ۔ دکھ۔
 محنت - (دک - ۱ - صف) ۱) دکھ۔ دکھ۔ دکھ۔

دق

دق - (دق - ۱ - صف) ۱) ایک بیماری جو بھیڑوں کے خراب ہونے سے لگ جاتی ہے (۲) باریکی۔ پتلا۔ بھوٹا (۳) تنگ۔ ناراض۔ آزرہ۔
 دق کرنا - (دق - محاورہ) پھیڑنا۔ سانس تنگ کرنا۔ تکلیف دینا۔ حیران کرنا۔
 دق ہونا - (دق - محاورہ) ۱) تنگ ہونا (۲) دق کے مرض میں مبتلا ہونا۔
 دق قیق - (دق - ق - ۱ - صف) ۱) دقت کی جمع۔ باریکیاں۔ نکلتے۔
 دقت - (دق - ق - ۱ - صف) ۱) مشکل۔ دشواری۔ تکلیف۔ عسرت۔ تنگی۔ عذاب۔
 دقت پڑنا - (دق - محاورہ) مشکل پیش آنا۔ دشوار ہونا۔
 دقت پسند - (دق - صف) مشکل بات کو پسند کرنے والا۔
 دقت طلب - (دق - صف) ۱) مشکل۔ دشوار (۲) قابل عجز۔ توجہ طلب۔
 دقت میں پڑنا - (دق - محاورہ) ۱) تکلیف میں ہونا۔ مصیبت میں پھینکا (۲) مشکل میں ہونا۔ دقت ہونا۔ مشکل ہونا۔
 دقیانوس - (دق - یا - ٹو - ۱ - صف) ۱) مذ ایک عالم حکمران جس کے عہد میں اصحاب کہف ہوئے (۲) پرانے خیال کا پرانے رسم و رواج کا پابند۔
 دقیانوسی - (دق - یا - ٹو - ۱ - صف) ۱) پرانا۔ قدیمی۔ فرسودہ۔
 دقیانوسی بایں کرنا - پرانی باتیں کرنا۔ ماضی پرستی۔

دُکھ اٹھانا۔ (۱- محاورہ) تکلیف اٹھانا۔ مصیبت بھرننا۔ بیماری بھگتنا۔ ایذا پانا
 دُکھ ہٹانا۔ (۱- محاورہ) ہمدردی کرنا۔ غم خواری کرنا۔
 دُکھ بسرانا۔ (مص- مرکب) رنج بھلانا۔
 دُکھ بھرننا۔ دُکھ بھگتنا۔ (۱- محاورہ) مصیبت اٹھانا۔ تکلیف ہسنانا۔
 دُکھ بھرنس بی فاختہ کوئے اندھے کھائیں۔ (۱- مثل) مصیبت کوئی
 اٹھانے۔ فائدہ کوئی حاصل کرے۔
 دُکھ پر دُکھ بھرننا۔ (۱- محاورہ) سخت تکلیف اٹھانا۔ تکلیف پر تکلیف اٹھانا
 دُکھ ڈرد۔ (۱- اند) آفتیں۔ مصیبتیں۔
 دُکھ درد کا شریک (ساعتی)۔ (۱- صفت) رنج و غم کا ساتھی۔ ہمدرد۔
 دُکھ درد میں شریک ہونا۔ (۱- محاورہ) رنج و غم کا ساتھ دینا۔ دُکھ بٹانا۔
 دُکھ دھندہ۔ (۱- اند) دُنیا کی تکلیفیں اور کام۔
 دُکھ دینا۔ (۱- محاورہ) تکلیف دینا۔
 دُکھ روونا۔ (۱- محاورہ) (۱) بگڑ شکوہ کرنا (۲) دُکھ کا حال بتانا۔
 دُکھ ساگر۔ (۱- اند) مصیبت کا گھر۔ دُنیا۔
 دُکھ سگھ۔ (۱- اند) رنج و راحت۔
 دُکھ سگھ بھائی بہن میں۔ (۱- مثل) دُکھ کے ساتھ سگھ اور سگھ کے
 ساتھ دُکھ ضرور ہوتا ہے۔
 دُکھ سگھ سب کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ (۱- مثل) ہر شخص کو تکلیف
 بھی ہوتی ہے اور سگھ بھی ملتا ہے۔
 دُکھ کا مارا۔ (۱- محاورہ) مصیبت زدہ۔
 دُکھ کی لوٹ۔ (۱- امث) سرتاپا دُکھ۔ دائم المرض۔
 دُکھ کی ماری۔ (۱- محاورہ) مصیبت زدہ (عورت)۔
 دُکھ لگنا۔ (۱- محاورہ) (۱) روگ لگنا۔ روگ ہونا (۲) مصیبت پڑنا۔
 دُکھ میں سگھ کی قدر ہوتی ہے۔ (۱- مثل) جب تک تکلیف نہ ہو
 آدمی آرام کی قدر نہیں کرتا۔
 دُکھ ہیرتا۔ دُکھ دُور کرنے والا۔ غم مٹانے والا۔ مصیبت سے نجات دلائی والا
 دُکھ ہیزن۔ دُکھ دُور کرنے والا (ق)۔
 دُکھال۔ (ق)۔ (۱- امث) تے۔ مثلی۔
 دُکھانا۔ (د- کھانا)۔ (۱- مص) (۱) آنکھوں کے سامنے کرنا۔ رُو برُو کرنا۔
 پیش کرنا (۲) ملاحظہ کرانا۔
 دُکھانے کے دانت ہیں۔ نائش بائیں ہیں۔
 دُکھانا۔ (د- کھانا)۔ (۱- مص) (۱) تکلیف دینا۔ ایذا دینا (۲) رنج دینا۔
 غم دینا (۳) زخم کو پھیرنا۔ زرد کی جگہ کوئی چیز مارنا۔
 دُکھاوا۔ (د- کھانا)۔ (۱- اند) نمود۔ نائش۔ تکلیف۔ تصنیع۔ بناوٹ۔
 ظاہری شیب ٹاپ (۲) ظاہر ہونا۔ معلوم دینا۔ نمودار ہونا۔
 دُکھاوٹ۔ (د- کھانا)۔ (۱- امث) (۱) نمود۔ نائش۔ ظاہر داری۔
 (۲) تکلیف۔ بناوٹ (۳) ظہور۔ درشن۔
 دُکھاؤ۔ (د- کھانا)۔ (۱- اند) (۱) دُور کی چیز کا نظر آنا (۲) سامنا ہونا۔
 (۳) دیدار۔ خوشنما۔
 دُکھائی۔ (د- کھانا)۔ (۱- امث) (۱) نمودنائی (۲) ظہور۔ درشن (۳)

نائش۔ نمود (۲) معاینہ۔ معاینہ کرنے کی اُمرت۔
 دکھائی پڑنا۔ دکھائی دینا۔ (مص- مرکب) (۱) نظر آنا۔ بھائی دینا۔
 (۲) منقذ ہونا۔ احتمال ہونا۔
 دُکھت۔ (د- کھت)۔ (۱- صفت) دُکھیا۔ مصیبت کا مارا۔
 دُکھتی۔ (د- کھتی)۔ (۱- صفت) (۱) تکلیف دینے والی۔ دُکھ دینے والا۔
 دُکھتی جوٹ کی بیس۔ (۱- امث) پستے کی بات۔
 دُکھتی رنگ۔ (۱) اخلاقی کمزوری (۲) ذلی احساس۔
 دُکھتی رنگ پر لاکھ رکھنا۔ (۱- محاورہ) کسی کے عیب یا کمزوری پر
 گرفت کرنا۔
 دُکھتی رنگ چھپڑنا (دوبانا)۔ تکلیف دہ بات شروع کرنا۔ ناگوار
 بات چھپڑنا۔
 دُکھتی کہنا۔ (۱- محاورہ) ایسی بات کہنا جو مخاطب کو ناگوار کرے۔
 دُکھتے دانت کو اٹھیرنا چاہیئے۔ (۱- مثل) دُکھ دینے والی شے کو دُور
 ہی کر دینا بہتر ہے۔
 دُکھڑا۔ (د- کھڑا)۔ (۱- اند) (۱) بیماری۔ مرض (۲) رنج و غم کا بیان۔ درد بھرا
 قصہ۔ (۳) بگڑ شکوہ (۴) غمت و مشقت۔
 دُکھڑا پڑنا۔ (۱- محاورہ) (۱) مصیبت یا پتہ کا آنا (۲) غاوند کا مرجانا۔
 دُکھڑا پٹنا۔ (۱- محاورہ) (۱) غمت و مشقت کرنا (۲) مصیبت میں
 زندگی گزارنا۔
 دُکھڑا روونا۔ (۱- محاورہ) مصیبت بیان کرنا۔
 دُکھلانا۔ (د- کھلانا)۔ (۱- مص) (۱) ملاحظہ کرنا۔ دکھانا (۲) آگاہ کرنا (۳)
 پیش کرنا (۴) رہنمائی کرنا۔ راستہ بتانا۔
 دُکھن۔ (د- کھن)۔ (۱- اند) (۱) جنوں کی سمت۔
 دُکھن پیٹ۔ دکن کا پتی یعنی حاکم۔ (ق)۔
 دُکھن۔ (۱- امث) (۱) درد۔ تکلیف۔
 دُکھنا۔ (د- کھنا)۔ (۱- امث) (۱) جنوںی ہوا۔
 دُکھنا۔ (د- کھنا)۔ (۱- مص) (۱) دکھائی دینا۔ نظر آنا۔
 دُکھنا۔ (د- کھنا)۔ (۱- مص) (۱) درد کرنا۔ درد ہونا (۲) غمگین ہونا۔ غم ہونا۔
 (۳) تھک جانا۔
 دُکھنے آنا۔ (۱- امث) (۱) آنکھ کی تکلیف ہونا۔
 دُکھنی۔ (د- کھنی)۔ (۱- صفت) (۱) دُکھن سے منسوب۔ دُکھن کا۔ جنوںی ہند
 میں اردو زبان کی ابتدائی صورت۔
 دُکھی۔ (د- کھی)۔ (۱- اند) (۱) بیمار (۲) مصیبت زدہ۔ رنجیدہ۔
 دُکھی ہونا۔ (۱- محاورہ) (۱) رنجیدہ ہونا۔ عاجز آنا۔ نہایت تکلیف میں
 ہونا (۲) مریض ہونا۔ روگ ہونا۔
 دُکھیا۔ (د- کھی)۔ (۱- امث) (۱) درد مند عورت۔ جنوں کی ماری عورت۔
 دُکھیا دُکھ رووے کھیا کمر لووے۔ (۱- مثل) مصیبت زدہ اپنا
 دُکھ بیان کرنا سچ لگتی اس سے فائدہ اٹھانے کی سوچتا ہے۔
 دُکھیا رووے کھیا سووے۔ (۱- مثل) مصیبت زدہ تکلیف میں
 اور خوش قسمت مرتے میں زندگی گزارتا ہے۔

دَل - (دہ - ا - مذ) (۱) جسامت - موٹائی (۲) فوج - لشکر - ابنوہ (۳) پتہ - شگوفہ
(۴) جنگلی چاول (۵) ڈھیر - قودہ - تعداد (۶) تباہی - بربادی
(۷) دُن کا امر -
دَل بادل - (۱) مذ (۱) بہت گہرا بڑا (۲) بہت سی فوج (۳) بڑا خیمہ -
دَل بندھنا - (۱) محاورہ (۱) پھوڑے پھینسی کی جسامت بڑھانا (۲)
فوج کا ابنوہ کرنا -

دَل دار - (ہ - ف - صفت) موٹا - دبیز -
دَل دینا - (۱) محاورہ (۱) سخت صدر پہنچانا -
دَل - (ف - ن - ا - مذ) (۱) ایک اندرونی عضو جس کا کام رگوں میں خون پہنچانا
ہے - اس کی حرکت بند ہوجائے تو انسان فوراً مرجھاتا ہے - قلب (۲)
کسی شے کا باطن (۳) حوصلہ - کلیجہ (۴) جرأت - دلیری - بہت (۵)
خواہش - رغبت - ہوس (۶) رُخ - عنبر - توتیر (۷) مرضی - خوشی -
(۸) سخاوت - فیاضی (۹) وسط - درمیان - مرکز -

دَل آب آب ہونا - (۱) محاورہ (۱) دل کا نرم ہونا -
دَل آجانا - (۱) محاورہ (۱) محبت ہو جانا -
دَل آنا - (ف - صفت) دل کو آراستہ کرنے والا معشوق -
دَل آرام - (ف - صفت) دل کو آرام دینے والا معشوق -
دَل آرائی - (ف - صفت) دل رباہی - دل کو بھاننا -
دَل آزار - (ف - صفت) دل کو ستانے والا - دل کو دکھانے والا - ظالم -
دَل آزاری - (ف - صفت) دل دکھانا - ظلم و ستم - ایذا رسانی -
دَل آزرده - (ف - صفت) رنجیدہ - ناخوش -

دَل آزرده ہونا - (۱) محاورہ (۱) ناخوش ہونا - افسردہ ہونا -
دَل آزمانا - (۱) محاورہ (۱) حوصلے کی آزمائش کرنا -
دَل آگاہ - (ف - صفت) فانا - ہوشیار - بیدار دل -
دَل آنا - دل آجانا - (۱) محاورہ (۱) عاشق ہونا - محبت کرنا -
دَل آویز - (ف - صفت) دل بھانے والا -
دَل آویزی - (ف - صفت) دل بھاننا -
دَل آہن ہونا - (۱) محاورہ (۱) دل سخت ہونا -
دَل آہستہ ہونا - (۱) محاورہ (۱) پر نیک و بد خود بخود ظاہر ہو جانا -
دَل آکھنا - (۱) محاورہ (۱) عشق ہونا - محبت ہونا -

دَل آٹھانا - (۱) محاورہ (۱) قطع تعلق کر لینا -
دَل آٹھنا - (۱) محاورہ (۱) دل اچھٹ جانا - جی نہ لگنا -
دَل آٹھنا ہونا - (۱) محاورہ (۱) جی اکتانا - جی نہ لگنا -
دَل آٹھنا جانا - (۱) محاورہ (۱) گھبرا جانا -
دَل آٹھلنا - (۱) محاورہ (۱) دل دھڑکنا -

دَل اکتار میں ہونا - (۱) محاورہ (۱) دل قابو میں ہونا -
دَل اداست ہونا - (۱) محاورہ (۱) افسردہ ہونا - ٹھیک ہونا -
دَل اڈالنا - (۱) محاورہ (۱) فریفتہ کر لینا -
دَل اڑھلنا - (۱) محاورہ (۱) دل کالے قابو ہونا -
دَل اقتادہ - (ف - صفت) بد دل - شکستہ خاطر -

دُکھیارا - (دُکھ - یا - لا) (۱) صفت (دُکھوں کا مانا ہوا -
دُکھیاری - (دُکھ - یا - ری) (۱) صفت (دُکھوں کی ماری ہوئی آفت کی ماری
کُئی - (۱) صفت (تاش یا کھنے میں دو کا پتہ -

د گ

دُگاڑا - (دُگ - کا - ٹا) (۱) مذ (۱) دونالی بندوق - دوہری گولی - دو گولیاں
بھر کر مارنا -
دُگانہ - (دُگ - گانہ) (ف - ن - ا - مذ) (۱) بڑا دل چیز (۲) دوہری چیز (۳) دو
رکعت نماز شکرانہ (۴) وہ عورت جو کسی دوسری عورت سے چوٹی لڑاتی
ہو (۵) (۱) صفت (۱) بنا پانا -
دُگانہ پھیل - بڑھاؤ پھیل -

دُگدانا - (دُگ - فانا) (ف - صفت) پریشان کرنا - شک میں ڈالنا -
دُگدگانہ - (دُگ - دُغا) (۱) صفت (۱) دیکھے دغدغا -
دُگدگانا - (دُگ - دُغانا) (۱) صفت (۱) دیکھے دغدغانا -
دُگدگانہ چٹ - (دُگ - گ - چٹ) (۱) صفت (۱) دیکھے دغدغا چٹ -
دُگدگی - (دُگ - دُگی) (۱) صفت (۱) غلغوم - سینہ اور گلو کے بیچ کا
گڑھا - زکمی - مقل - گلا (۲) جگنی گلے کا ایک زیور جو سینہ سے اوپر
گھسا رہتا ہے (۳) سینہ کی بڑی - پانس -
دُگدگی میں دم ہونا - (۱) محاورہ (۱) گے میں سانس ہونا - سینہ میں دم ہونا
گھنگرولنا - اخیر وقت ہونا -

دُگدھا - (دُگ - دھا) (۱) صفت (۱) دیکھے دغدغہ -
دُگر - (دُگر - ف - صفت) (۱) دیگر - دوسرا (۲) ایک بار اور -
دُگر دگر است جگر جگر - (ف - صفت) غیر اپنوں کے برابر نہیں ہو سکتا -
دُگر گول - (ف - صفت) (۱) اُلٹ - سُرنگوں (۲) اُلٹ پلٹ - تہ و بالا -
تغییر و تبدل -
دُگر گول ہونا - (۱) محاورہ (۱) رنگ بدلتا - تہ و بالا ہونا - اُلٹ پلٹ ہونا - تغیر و
تبدل ہونا -

دُگڑا - (دُگ - ٹا) (۱) مذ (۱) سُرگ - رستہ - شارع عام -
دُگلا - (دُگ - لا) (۱) مذ (۱) دونی دار اگر کھا - لبادہ - اور بڑھ کوٹ -
دُگلا سب سے اگلا - پچھا و زرم - اور دھو گرم - کھڑکی میں بھرم
دے دو گرم - (۱) صفت (۱) دنگے میں یہ سب صفات پائی جاتی ہیں -
دُگن - (دُگن - ن) (۱) صفت (۱) دُگنی آواز (۲) دوسری آواز لگانا - موسیقی میں
دوسرے درجہ کی آواز - دُون -

دُگنا - (دُگ - نا) (۱) صفت (۱) دوچند - دوہرا - دُونا -
دُگنی - (دُگ - نی) (۱) صفت (۱) دوچند - دوہری - دُونی -

د ل

دل افروز - (ف-صفت) دل کو روشن کرنے والا۔
 دل افکار - (ف-صفت) رنجیدہ، غمگین۔
 دل افکندیم لیسیم اللہ محرابیہا و مر سہا - (ف-ع-مقولہ) جب کوئی کام شروع کرنے میں تویہ مصرعہ پڑھا جاتا ہے (ترجمہ) اب تو ارادہ کر لیا ہے اللہ مالک ہے۔
 دل آگتنا - (ا-محاورہ) دل اچھاٹ ہو جانا۔ جی بھر جانا۔
 دل اکھڑ جانا - (ا-محاورہ) طبیعت کا اچھاٹ ہو جانا۔ دل نہ لگنا۔
 دل الٹ ٹپٹ ہو جانا - (ا-محاورہ) دل کا گھبرانا۔ بے چین ہونا۔
 دل اگتنا - (ا-محاورہ) دیوانہ ہونا۔ پاگل ہونا (۲) دل گھبرانا نقصان ہونا
 دل اگھانا - (ا-محاورہ) عاشق ہونا (۲) سیراز ہونا۔ اگتنا۔
 دل امنڈ آنا - (ا-محاورہ) رقت طاری ہونا۔ رونے کے قریب ہونا۔
 دل اور ہونا - (ا-محاورہ) خیال مختلف ہونا۔
 دل اٹڈ آنا - (ا-محاورہ) دل بھر آنا۔ رونے کے قریب ہونا۔
 دل ایک ہونا - (ا-محاورہ) ہم خیال ہونا۔
 دل اینٹھ لینا - (ا-محاورہ) فریفتہ کر لینا۔
 دل باختمہ - (ف-صفت) پریشان، گھبرا یا ہوا۔ بدعواس۔
 دل باخ باخ ہونا - (ا-محاورہ) بہت خوش ہونا۔
 دل باندھنا - (ا-محاورہ) دل کو مائل کر لینا۔
 دل بٹورنا - (ا-محاورہ) ہمت توڑنا۔ بے دل کرنا۔
 دل بچھانا - (ا-محاورہ) ہمت توڑ دینا۔ افسردہ کر دینا۔
 دل بچھنا - (ا-محاورہ) اُمتگ جاتی رہنا۔
 دل بجال ہونا - (ا-محاورہ) (۱) دل کی کدویت دُور ہونا (۲) دل کو چین آنا۔
 دل بدست آور کہ رنج اکبر است - (ف-مش) دلجوئی کرنا رنج اکبر کے برابر ہے۔
 دلبر - (ف-صفت) دل لے لینے والا (۲) پیارا، محبوب، ممشوق۔
 دلبری - (ف-ا-مش) (۱) دل کو موہ لینا۔ دل شش (۲) محبوبیت، معشوقیت۔ پیارا ہونا۔
 دل بڑا کرنا - (ا-محاورہ) رنجیدہ ہونا۔
 دل بڑا ہونا - (ا-محاورہ) (۱) دل ناراض ہونا۔ جی کھٹا ہونا۔ تسلی ہونا۔
 دل بڑا ہونے - (ف-ا-مش) (۱) نفرت۔ کماہیت۔ متفرق (۲) دل کا ہٹ جانا۔
 دل بڑا ہونے - (ف-صفت) دل ہٹ جانا۔ غمگین۔ آزرده۔
 دل برشتہ - (ف-صفت) غمگین۔ رنجیدہ۔
 دل برمانا - (ا-محاورہ) فریفتہ کرنا۔ رنج دینا۔
 دل بڑھانا - (ا-محاورہ) حوصلہ دلانا۔ ہمت بندھانا۔
 دل بڑھنا - (ا-محاورہ) حوصلہ بڑھنا۔ دلیر ہونا۔
 دل بستگی - (ف-ا-مش) دل لگنا۔ جی پہننا۔
 دل بچھنا - (ا-محاورہ) افسردہ خاطر ہونا۔

دل بلیوں اچھلنا - (ا-محاورہ) بہت بے تاب ہونا۔ گھبرانا۔
 دل بند - (ف-صفت) (۱) پیارا۔ محبوب (۲) بیٹا۔
 دل بند ہونا - (ا-محاورہ) ڈم گھٹنا۔ دل گھبرانا۔
 دل بودا ہونا - (ا-محاورہ) دل کو درد ہونا۔ تکلیف نہ اٹھا سکتا۔
 دل بھاری ہونا - (ا-محاورہ) رنجیدہ ہونا۔ غموم ہونا۔
 دل بھٹکنا - (ا-محاورہ) دل کا کبھی کسی طرف کبھی کسی طرف مائل ہونا۔
 دل بھیننا - (ا-محاورہ) ڈرنا۔ بچھکانا۔
 دل کھڑ آنا - (ا-محاورہ) آنکھوں میں آنسو آنا۔ رقت ہونا۔
 دل گھڑ گھڑ آنا - (ا-محاورہ) لالچ پیدا ہونا۔ جی لچانا۔ شوق پیدا ہونا۔
 دل گھبر جانا - (ا-محاورہ) سیر ہو جانا۔
 دل گھڑ دینا - (ا-محاورہ) دل پھیر دینا۔ لگائی بھائی کر کے نفرت پیدا کر دینا۔
 دل گھڑ گئے - (ا) جی بھر کے۔ اچھی طرح سیر ہو کر۔
 دل پہلنا - (ا-محاورہ) (۱) دل کا کسی کام میں مشغول ہونا (۲) پریشان دور ہونا۔
 دل لے ایمان ہونا - (ا-محاورہ) (۱) بددیانتی کرنا (۲) دل میں بُرا خیال آنا۔
 دل بیٹھا جانا - (ا-محاورہ) کمزور محسوس ہونا۔ اختلاج قلب کی حالت ہونا۔
 دل پیٹھ جانا (بیٹھنا) - (ا-محاورہ) ہمت نہ رہنا۔ افسردہ ہونا۔ خوشی نہ رہنا۔
 دل بے چین (بے کلی) ہونا - (ا-محاورہ) مضطرب ہونا۔
 دل یازہ پاتہ (پاشن پاش) ہونا - (ا-محاورہ) روحانی صدمہ ہونا۔
 دل پانا - (ا-محاورہ) عمدتہ معلوم کرنا۔ خوشی پانا۔ حوصلہ ہونا۔
 دل پانی پانی ہونا - (ا-محاورہ) دل نرم ہونا۔
 دل پیٹھ ہو جانا - (ا-محاورہ) مصیبتیں پھیل جھیل کر دل کا سخت ہو جانا۔
 دل پراختیا رہونا - (ا-محاورہ) دل قابو میں ہونا۔
 دل پیر بار ہونا - (ا-محاورہ) دل پر جو مجھ معلوم ہونا۔
 دل پر پیٹھ رکھ لینا - (ا-محاورہ) صبر کر لینا۔ دل سخت کر لینا۔
 دل پر چوٹ لگنا - (ا-محاورہ) صدمہ پہننا۔ دل پر اثر ہونا۔
 دل پر چھریاں چلنا - (ا-محاورہ) اندرونی صدمہ پہننا۔
 دل پرستان ٹوٹنا - (ا-محاورہ) افسوس ہونا پھٹنا ہونا۔ صدمہ ہونا۔
 دل پریشک ہونا۔ حسد ہونا۔
 دل پر فعل لگانا - (ا-محاورہ) دل کے راز کو پوشیدہ رکھنا۔
 دل پر کندہ ہونا - (ا-محاورہ) کسی بات کا دل میں اثر ہونا۔ دل میں بیٹھ جانا۔
 دل پر گھیلنا - (ا-محاورہ) جان بھوکوں میں ڈال کر کوئی کام کرنا۔
 دل پر گھونسا پڑنا - (ا-محاورہ) اچانک کوئی صدمہ پہننا۔
 دل پر گھر ہو جانا - (ا-محاورہ) دل ایسا سنج ہو جانا کہ اس پر کسی بات کا اثر نہ ہو۔
 دل پر میل آنا - (ا-محاورہ) دل کو ناکوار کرنا۔ کسی کی بات کو پسند نہ کرنا۔

دل پر میل نہ لانا۔ (۱- محاورہ) خیال نہ کرنا۔ بڑا نہ ماننا۔
 دل پر نشتر مارنا۔ (۱- محاورہ) بچھتی ہوئی بات کہنا۔ تکلیف دہ بات کہنا
 دل پر نقش ہونا۔ (۱- محاورہ) بات کا دل میں بیٹھ جانا۔
 دل پر پتھر رکھ رکھ کے دیکھو۔ (۱- محاورہ) اپنی حالت کا اندازہ کر کے دوسرے
 کی نسبت کچھ کہو۔
 دل پر پتھر رکھنا۔ (۱- محاورہ) تسلی اور تسکین دینا۔
 دل پر چانا۔ (۱- محاورہ) دل پہلانا۔
 دل پر پریشان ہونا۔ فکر ہونا۔ رنج ہونا۔
 دل پذیر۔ (۱- صفت) مرغوب۔ پسندیدہ۔
 دل پذیر۔ (۱- ف۔ ۱- امث) رغبت۔ پسندیدگی۔
 دل پر مڑو ہونا۔ (۱- محاورہ) افسردہ ہونا۔ غمگین ہونا۔
 دل پستان۔ (۱- محاورہ) فریشتہ ہونا۔
 دل پسند۔ (۱- صفت) مرغوب۔ پسندیدہ۔
 دل پسندی۔ (۱- ف۔ ۱- امث) محبت۔
 دل پسیمنا۔ (۱- محاورہ) (۱) دم آنا (۲) سخاوت پر آمادہ ہونا۔
 دل پکا کرنا۔ (۱- محاورہ) دل مضبوط کرنا۔ حوصلہ کرنا۔
 دل پاک جانا۔ (۱- محاورہ) (۱) صدقوں سے دل کو سخت رنج ہونا (۲)
 طینے میں سن کر دل کو تکلیف ہونا۔
 دل پکڑا جانا۔ (۱- محاورہ) (۱) شبہ پڑنا۔ شک پڑنا (۲) ارادہ ظاہر ہو
 جانا۔ عمدہ معلوم ہونا۔
 دل پکڑ کر اٹھنا۔ (۱- محاورہ) بے قرار ہو کر اٹھنا۔
 دل پکڑ کر بیٹھ جانا۔ (۱- محاورہ) صدمے کی وجہ سے بول نہ سکتا یا
 گھبرا جانا۔
 دل پکڑ لینا۔ (۱- محاورہ) صدمے کی تاب نہ لا سکتا۔
 دل پکڑے پھیرنا۔ (۱- محاورہ) بے تاب ہونا۔ مضطرب ہونا۔
 دل پاک کے پھوڑا ہونا۔ (۱- محاورہ) صدقوں کی وجہ سے زیادہ
 برداشت کی طاقت نہ ہونا۔
 دل پھلنا۔ (۱- محاورہ) رحم آنا۔ ترس آنا۔
 دل پھارنا۔ (۱- محاورہ) دل کا بیزار کرنا۔ طبیعت کو متغیر کرنا۔
 دل پھٹا جانا۔ (۱- محاورہ) ہمدردی کی وجہ سے صدمہ ہونا۔
 دل پھیٹ جانا (پھینٹنا)۔ (۱- محاورہ) دل متغیر ہونا۔ دل بیزار ہونا۔
 دل پھیر جانا (پھیرنا)۔ (۱- محاورہ) بیزار ہونا۔ کراہت ہونا۔
 دل پھڑکانا۔ (۱- محاورہ) خوشی سے بے تاب ہو جانا۔
 دل پھسلنا۔ (۱- محاورہ) دل کا بے اختیار مائل ہونا۔
 دل پھنسا۔ (۱- محاورہ) عاشق ہونا۔ مائل ہونا۔
 دل پھینک جانا۔ (۱- محاورہ) بھل جانا۔ دل میں جلیں ہونا۔
 دل پھیر لینا۔ (۱- محاورہ) دل ہٹا لینا۔ نفرت کرنا۔
 دل پھینکا ہو جانا۔ (۱- محاورہ) توجہ ہٹ جانا۔ کسی چیز کا خیال
 جانا رہنا۔
 دل تازہ ہونا۔ (۱- محاورہ) خوش ہونا۔ دل کو فرحت ہونا۔

دل تڑپنا۔ (۱- محاورہ) بے تاب ہونا۔ مضطرب ہونا۔
 دل لغتہ۔ (۱- صفت) صمیمیت زدہ۔ دل جلا۔ عاشق
 دل تلملانا۔ (۱- محاورہ) دل کا بے قرار ہونا۔
 دل تلے اوپر ہونا۔ (۱- محاورہ) دل گھبرانا۔ پریشان ہونا۔
 دل تنگ۔ (۱- صفت) طول۔ رنجیدہ۔ ناخوش۔
 دل تنگ ہونا۔ (۱- محاورہ) (۱) مضطرب ہونا۔ پریشان ہونا (۲)
 غمیس ہونا۔ بخیل ہونا۔
 دل توڑنا۔ (۱- محاورہ) (۱) بایوس کرنا۔ نا امید کرنا (۲) بے تعلق ہو جانا۔
 دل تولنا۔ (۱- محاورہ) آزمائش کرنا۔
 دل تو نگر ہونا۔ (۱- محاورہ) سستی ہونا۔ عزیت کا رنج نہ ہونا۔
 دل تمام لینا۔ (۱- محاورہ) مضبوط کرنا۔ دل کو قابو میں رکھنا۔
 دل تھکھڑا۔ (۱- محاورہ) ڈرنا۔ خوف کھانا۔
 دل تھوڑا ہونا۔ (۱- محاورہ) ہمت نہ ہونا۔ ہمت ٹوٹ جانا۔
 دل ٹوٹنا۔ (۱- محاورہ) مرضی دریافت کرنا۔
 دل ٹکڑے ٹکڑے ہونا۔ (۱- محاورہ) سخت صدمہ ہونا۔
 دل ٹوٹ جانا۔ (۱- محاورہ) ہمت ٹوٹ جانا۔ بایوس ہو جانا۔
 دل ٹوٹ کر آنا۔ (۱- محاورہ) سخت فریشتہ یا مائل ہونا۔
 دل ٹھکانے ہونا۔ (۱- محاورہ) اطمینان ہونا۔ تسکین ہونا۔
 دل ٹھکانا۔ (۱- محاورہ) اطمینان ہونا۔ تسکین ہونا۔
 دل ٹھنڈا ہونا۔ (۱- محاورہ) (۱) خوش ہونا (۲) تسلی ہونا۔ اطمینان ہونا۔
 دل ٹھوکتا۔ (۱- محاورہ) اطمینان کر لینا۔
 دل ٹھہرنا۔ (۱- محاورہ) تسکین ہونا۔ صبر آ جانا۔ دل جمعی ہونا۔
 دل جانا۔ (۱- محاورہ) عاشق ہونا۔
 دل جانتا ہے۔ (۱- محاورہ) دل واقف ہے۔ حقیقت معلوم ہے۔
 دل جگر دیکھنا۔ (۱- محاورہ) حوصلہ یا ہمت دیکھنا۔
 دل جلا۔ (۱- صفت) عاشق۔ فریفتہ۔ غمزدہ۔ دل سوختہ۔
 دل جلا کر خاک کرنا۔ (۱- محاورہ) سخت صدمہ پہنچانا۔ سخت رنج دینا۔
 دل جلا لانا۔ (۱- محاورہ) (۱) سخت رنج دینا (۲) رشک دلانا۔ رنج اٹھانا۔
 دل جل کر کباب ہونا۔ (۱- محاورہ) سخت رنج یا صدمہ ہونا۔ رشک
 سے جانا۔
 دل جلنا۔ (۱- محاورہ) رنج ہونا۔ غم ہونا۔
 دل جھنا۔ (۱- محاورہ) دل لگنا۔ کسی کام کو توجہ سے کرنا۔
 دل جمعی۔ (۱- صفت) تسلی۔ اطمینان۔ بے فکری۔
 دل جوان رہنا۔ (۱- محاورہ) ہر وقت خوش رہنا۔
 دل جو۔ (۱- صفت) پیارا۔ محبوب۔
 دل جوئی۔ (۱- صفت) تسلی۔ تسکین۔
 دل جوئی کرنا۔ (۱- محاورہ) دل ہاتھ میں لینا۔ تسلی دینا۔
 دل جھکنا۔ (۱- محاورہ) مائل ہونا۔
 دل جھٹانا۔ (۱- محاورہ) وجد میں آنا۔
 دل جھینے سے خفا ہونا۔ (۱- محاورہ) زندگی سے بیزار ہونا۔

دل داری۔ ولداری۔ (ف۔ ا۔ مٹ) (۱) تسلی تیشی۔ تسکین (۲) ہمدردی دغا داری۔
 دل دا غدار ہونا۔ (۱) محاورہ) دل پر بہت حد سے پہنچنا۔ مغموم ہونا۔
 دل دریا۔ (ف۔ صفت) نیاض۔ سخی۔
 دل دریا ہونا۔ (۱) محاورہ) بہت سخی یا فیاض ہونا۔
 دل دکھنا (گرگھنا)۔ (۱) محاورہ) غم ہونا۔ تکلیف ہونا۔
 دل دوڑنا۔ (۱) محاورہ) (۱) بے اختیار دل چاہنا۔ بے اختیار فریفتہ ہونا۔
 دل دوڑ۔ (ف۔ ا۔ صفت) دل پر اثر کرنے والا۔ پسندیدہ۔ مرغوب۔
 دل دو نیم ہونا۔ (۱) محاورہ) سخت صدمہ ہونا۔
 دل دھڑکنا۔ (۱) محاورہ) (۱) دل کی حرکت کا تیز ہوجانا (۲) دوسرے پیدا ہونا۔ خوف ہونا۔ اضطراب ہونا۔ دوسرے پیدا ہونا۔
 دل دھک دھک کرنا۔ (۱) محاورہ) بیماری ڈر یا اضطراب سے دل کی حرکت تیز ہوجانا۔
 دل دھکڑ پکڑ ہونا۔ (۱) محاورہ) خوف کھانا۔ ڈرنا۔ اضطراب ہونا۔
 دل دھک سے ہوجانا۔ (۱) محاورہ) اچانک صدمہ ہونا۔
 دل دہل جانا (دہلنا)۔ (۱) محاورہ) خوف کھانا۔ ڈرنا۔
 دل دیہی۔ (ف۔ ا۔ مٹ) تسلی۔ تیشی۔ دلاسا۔
 دل دیکھنا۔ (۱) محاورہ) (۱) حوصلے کی آزمائش کرنا (۵) نشا دریا فت کرنا۔
 دل دینا۔ (۱) محاورہ) فریفتہ ہونا۔ عاشق ہونا۔
 دل ڈال ڈال ڈال ہونا۔ (۱) محاورہ) دل بے اختیار ہونا۔ دل قابو میں نہ ہونا۔
 دل ڈوبنا۔ (۱) محاورہ) غشی طاری ہونا۔ کمزوری کی وجہ سے دل گنا۔
 دل ذرا سا ہونا۔ (۱) محاورہ) دل کا نازک ہونا۔ دل میں برداشت کی طاقت نہ ہونا۔
 دل گرنا۔ (ف۔ صفت) دل بھانے والا۔ دلبر۔ معشوق۔
 دل ربا نی۔ (ف۔ ا۔ مٹ) دلبری۔ معشوقیت۔ محبوبیت۔
 دل رچینا۔ (۱) محاورہ) مانوس ہونا۔
 دل رقتہ۔ (ف۔ صفت) جس کا دل گیا ہوا ہو۔ عاشق۔ فریفتہ۔
 دل رابدل راہیمست۔ (ف۔ موقوفہ) دل کو دل سے راہ ہوتی ہے۔
 ایک طرف محبت ہو تو دوسری طرف بھی ہوجاتی ہے۔
 دل رگنا۔ آندہ ہونا۔ رنجیدہ ہونا۔
 دل رکھنا۔ (۱) محاورہ) (۱) آرزو پوری کرنا (۲) تسلی کرنا (۳) حوصلہ رکھنا۔
 دل رنڈھنا۔ (۱) محاورہ) نکلین ہونا۔
 دل روشن ہونا۔ (۱) محاورہ) (۱) معلوم ہونا۔ واقفیت ہونا (۲) دل کا ڈر عرفان سے منور ہونا۔
 دل روندنا۔ (۱) محاورہ) (۱) صدمہ پہنچانا (۲) فریفتہ کرنا۔
 دل ریش۔ (ف۔ صفت) زخمی دل۔ ٹکنا تیا عاشق۔
 دل زار۔ (ف۔ صفت) پریشان دل۔ تکلیف میں۔
 دل زندگی سے کچھ بانا۔ (۱) محاورہ) ناامید ہوجانا یا اوس ہوجانا۔
 دل زندہ ہوجانا۔ (۱) محاورہ) بہت خوش ہونا۔

دل چار چار ہاتھ اچھلنا۔ (۱) محاورہ) بے تاب ہونا۔ گھبرانا۔
 دل چاک کرنا۔ (۱) محاورہ) صدمہ پہنچانا۔ رنج دینا۔
 دل چاہتا ہے۔ (۱) محاورہ) دل میں آرزو ہے۔
 دل چاہیے۔ (۱) محاورہ) حوصلہ یا ہمت درکار ہے۔
 دل چڑانا۔ (۱) محاورہ) (۱) فریفتہ کر لینا (۲) کام کرنے کو جی دچاہنا (۳) کوتاہی کرنا۔
 دل چسپ۔ دلچسپ۔ (ف۔ صفت) دل بھانے والا۔ خوشنما۔ خوبصورت۔ مزیدار۔
 دل چسپی۔ (ف۔ ا۔ مٹ) (۱) شوق۔ رغبت۔ چاہت (۲) مزہ۔ خوشی۔ لطف۔
 دل چلا۔ (ف۔ ا۔ صفت) دلبر۔ بہادر۔ مہیلا۔ بزمی (۲) صاحب ہمت۔ (۳) سخی۔ فیض (۴) پاگل۔ دیوانہ۔
 دل چلنا۔ (۱) محاورہ) خواہش کرنا۔ چاہنا۔
 دل چور۔ (ف۔ صفت) کم ہمت۔ بزدل۔
 دل چھان دینا۔ (۱) محاورہ) سخت رنج پہنچانا۔
 دل چھیننا۔ (۱) محاورہ) پہلو ہتی کرنا۔
 دل چھینتی کرنا۔ (۱) محاورہ) سخت رنج دینا۔
 دل چھوٹا ہونا۔ (۱) محاورہ) پست ہمت ہوجانا۔
 دل چھوٹ جانا۔ (۱) محاورہ) ہمت ٹوٹ جانا۔ گھبر جانا۔
 دل چھوڑنا۔ (۱) محاورہ) (۱) عاشق ہونا۔ فریفتہ ہونا (۲) ہمت مارنا۔
 دل چھیننا۔ (۱) محاورہ) دل کو زخمی کرنا۔ عاشق بنا لینا۔
 دل چھین لینا۔ (۱) محاورہ) عاشق بنا لینا۔
 دل چیر کر دکھانا۔ (۱) محاورہ) راز لگا ہر کرنا۔
 دل چیر کر دیکھنا۔ (۱) محاورہ) دل کا حال معلوم کرنا۔
 دل حاضر ہونا۔ (۱) محاورہ) متوجہ ہونا۔ دل چسپی لینا۔
 دل تزنک۔ (ف۔ ا۔ مٹ) غم زدہ دل۔ مغموم دل۔
 دل خاک ہونا۔ (۱) محاورہ) شگفتگی حالی رہنا۔ آرزو نہ رہنا۔
 دل خالی کرنا۔ (۱) محاورہ) رودھو کر یا غصہ نکال کر دل کا غبار نکالنا۔
 دل خانہ خدا ہے۔ (۱) محاورہ) دل اللہ کا گھر ہے کیونکہ دل میں اللہ کی یاد رہتی ہے۔
 دل خراس۔ (ف۔ صفت) جانکاہ۔ تکلیف دہ۔
 دل خستہ۔ (ف۔ صفت) کسیدہ۔ رنجیدہ خاطر۔ مصیبت زدہ۔
 دل خشک ہونا۔ (۱) محاورہ) راحت پانا۔ خوش ہونا۔
 دل خواہ۔ (ف۔ صفت) مرضی کے موافق۔ پسندیدہ۔
 دل خوش کرنا۔ (۱) محاورہ) راضی کرنا۔ آند کرنا۔
 دل خوش کن۔ (ف۔ صفت) دل کو مسرت اور خوشی بخشنے والا۔
 دل خون کرنا۔ (۱) محاورہ) بے حد غمت و مشقت کرنا۔
 دل تلخ ہونے کے بہ جانا۔ (۱) محاورہ) اُننگ جاتی نہنا شوق نہ رہنا۔
 دل تلخ ہونا۔ (۱) محاورہ) سخت رنجیدہ ہونا۔
 دل دادہ۔ (ف۔ صفت) عاشق۔ فریفتہ۔
 دل دار۔ (ف۔ ا۔ مٹ) تسلی دینے والا (۲) معشوق۔ پیارا۔ محبوب۔

دل بہاں - دل پھین لینے والا۔ خوبصورت۔ دلربا۔ مشوق۔
 دل ستانی - (ف۔ ا۔ مٹ) دل موہ لینا۔ فریضتہ کر لینا۔
 دل سخت کر لینا - (ا۔ محاورہ) بے رحم اور سنگ دل ہو جانا۔
 دل سپرد ہو جانا - (ا۔ محاورہ) (۱) منتظر ہو جانا (۲) دلولہ اور جوش جاتا رہنا۔
 دل سلگنا - (ا۔ محاورہ) دل میں جلن ہونا۔ سوز و گداز ہونا۔
 دل سینھالنا - (ا۔ محاورہ) ہمت کرنا۔ تیار ہونا۔
 دل سنھلنا - (ا۔ محاورہ) دل کو قرار یا تسکین ہونا۔
 دل سوختہ - (ف۔ صفت) دل جلا۔ غم زدہ۔ محبت زدہ۔
 دل سوڑ - (ف۔ صفت) (۱) کولانے والا۔ رقت انگیز۔ درد انگیز (۲)
 ہمدرد۔ غم خوار (۳) سرگرم۔ پرجوش۔ مشتاق (۴) دل کو جلانے والا۔
 (۵) دوست۔ مشوق۔
 دل سوزی - (ف۔ ا۔ مٹ) (۱) ہمدردی۔ غم خواری (۲) اشتیاق۔ سرگرمی
 (۳) دل کا جلنا۔
 دل سے - (۱) (۱) شوق سے۔ رحمت سے (۲) توجہ سے۔
 دل سے اُتارنا - (ا۔ محاورہ) نظروں سے گزانا۔ بے وقعت کر دینا۔
 دل سے اُتر جانا - (ا۔ محاورہ) بے وقعت ہو جانا۔ بھول جانا۔
 دل سے پائیں کرنا - (ا۔ محاورہ) خود بخود کچھ کہنا۔ سوچتے رہنا۔
 دل سے بھلا دینا - (ا۔ محاورہ) خیال بھونڈ دینا۔ بالکل یاد نہ رکھنا۔
 دل سے تنگ آنا - (ا۔ محاورہ) عاجز آنا۔ دکھی ہو جانا۔
 دل سے دل اٹکنا - (ا۔ محاورہ) آپس میں محبت ہو جانا۔
 دل سے دل ہلنا - (ا۔ محاورہ) دو شخصوں میں بہت محبت ہونا۔ ایک
 دوسرے کا عاشق ہونا۔
 دل سے دھواں نکلنا - (ا۔ محاورہ) (۱) آہ نکلنا (۲) بے حد غم ہونا۔
 دل سیر ہونا - (ا۔ محاورہ) دل بھر جانا۔
 دل سے صاف ہونا - (ا۔ محاورہ) رنج و دلال جاتا رہنا۔
 دل سے عیار نکلنا - (ا۔ محاورہ) طلال نہ رہنا۔ غصتہ اُتر جانا۔
 دل سے کاٹنا نکلنا - (ا۔ محاورہ) دل کی غلظت جاتی رہنا۔
 دل سے لگنا - (ا۔ محاورہ) بہت خیال ہونا۔ ٹکر ہونا۔ دُصن ہونا۔
 دل سے مجبور ہونا - (ا۔ محاورہ) دل پر قابو نہ ہونا۔
 دل سے ہلنا - خلوص اور محبت سے ملاقات کرنا۔
 دل سے نکال دینا - (ا۔ محاورہ) بھلا دینا۔ دل سے مو کر دینا۔
 دل سے نہ ہونا - (ا۔ محاورہ) ظاہر طور پر ہونا۔ نام کو ہونا۔
 دل سیاہ کرنا - (ا۔ محاورہ) بے رحم ہونا۔
 دل سینے میں الجھنا - (ا۔ محاورہ) دل گھبرانا۔ اضطراب ہونا۔
 دل بشاد - (ف۔ صفت) خوش۔ بشارت۔
 دل شکستہ - (ف۔ صفت) رنجیدہ۔ افسردہ۔ یائوس۔ کنارتہ عاشق۔
 دل شکن - (ف۔ صفت) دل توڑنے والا۔ ہمت پست کرنے والا۔
 بنا راض کرنے والا۔
 دل شکنی - (ف۔ ا۔ مٹ) دل توڑنا۔ ہمت توڑنا۔
 دل شکستہ - (ف۔ ا۔ صفت) خوش۔ بشارت۔

دل شیر ہونا - (ا۔ محاورہ) دل مضبوط ہونا۔ حوصلہ ہونا۔
 دل صاف ہو جانا - (ا۔ محاورہ) کدورت دور ہو جانا۔ طلال نہ رہنا۔
 صلح ہو جانا۔
 دل صد چاک - (ف۔ صفت) دل جس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہوں۔
 سخت رفتی دل۔ یائوس۔
 دل صفا ہونا - (ا۔ محاورہ) دل صاف ہونا۔
 دل ٹمگین - (ف۔ ا۔ صفت) رنجیدہ یا مغوم ہونا۔
 دل غنی ہونا - (ا۔ محاورہ) سخی ہونا۔ دل کا امیر ہونا۔
 دل فروش - (ف۔ صفت) دل بیچنے والا۔ عاشق۔
 دل فریب - (ف۔ صفت) (۱) دل کو بٹھا لینے والا۔ سن موہن۔ دلربا
 (۲) خوبصورت۔ سینک۔
 دل فریبی - (ف۔ ا۔ مٹ) خوبصورتی۔ دلربائی۔ دل کو بٹھانا۔ سن
 موہ لینا۔
 دل فگار - (ف۔ صفت) جس کا دل زخمی ہو۔ ٹمگین۔ محزون۔
 دل قیابوں میں ہونا - (ا۔ محاورہ) دل کا اپنے بس میں ہونا۔
 دل قوی کرنا - (ا۔ محاورہ) حوصلہ کرنا۔ دل کو مضبوط کرنا۔
 دل کا آجانا - (ا۔ محاورہ) عاشق ہونا۔
 دل کا ارمان نکلنا - (ا۔ محاورہ) آرزو پوری ہونا۔ حوصلہ نکلنا۔
 دل کا بادشاہ - (ا۔ مذ) آزاد۔ خود مختار۔
 دل کا بخارا - (ا۔ مذ) غصتہ۔ رنج۔ کدورت۔ طلال۔
 دل کا بودا - (ا۔ صفت) کم ہمت۔ بڑا دل۔ پست حوصلہ۔
 دل کا ٹکڑا - (ا۔ مذ) بہت پیارا۔ نعت۔ جگر۔
 دل کا حوصلہ نکلنا - (ا۔ محاورہ) آرزو یا خواہش پوری ہونا۔
 دل کا خون پینا - (ا۔ محاورہ) غم کھانا۔ رنج کرنا۔
 دل کا دل آئینہ سے - (ا۔ مٹ) جیسا کوئی کسی کے متعلق سوچے گا دیا
 ہی اُسے اس سے جواب بھی ملے گا۔
 دل کا دو دو لاکھ اچھلنا - (ا۔ محاورہ) بہت بے قرار ہونا۔ مضطرب ہونا۔
 دل کا دھڑکا - (ا۔ مذ) اختلاف قلب۔ یخقان۔
 دل کا عالم - (ف۔ ا۔ مذ) دل کی حالت۔
 دل کا عیار - (ا۔ مذ) رنج۔ غصتہ۔ کدورت۔ طلال۔
 دل کا عیار نکلنا - (ا۔ محاورہ) کدورت دور ہونا۔
 دل کا عیار وصل جانا - (ا۔ محاورہ) دل صاف ہو جانا۔ غصتہ دور ہو جانا
 کدورت ختم ہو جانا۔
 دل کا کاٹنا - (ا۔ مذ) دل کی غلظت۔ رنج۔ طلال۔
 دل کا کچا - (ا۔ صفت) کم ہمت۔ بڑا دل۔ بودا۔
 دل کا کچھ اور نقشہ ہونا - (ا۔ محاورہ) مضطرب ہونا۔ پریشان ہونا۔ گھبرانا
 دل کا کجرا - (ا۔ صفت) دل پکا رکھنے والا۔ وہ جس کے دل پر اثر نہ ہو۔
 دل کا کھول کھلنا - (ا۔ محاورہ) خوش ہونا۔ شگفتہ خاطر ہونا۔
 دل کا کھوٹنا - (ا۔ صفت) دغا باز۔ فریبی۔
 دل کا گھارانی جانے یا راؤ - (ا۔ مٹ) رنج و اہم کا اُسے ہی پتہ

ہوتا ہے جو اس میں مبتلا ہوتا ہے۔
 دل کا لہری - دل کا موجی - (۱) صفت (۱) آزاد - بے پروا (۲) خوش مزاج -
 دل کا پینا - (۱) محاورہ دل گھبرانا - ڈرنا -
 دل کی تاب ہونا - (۱) محاورہ جلتا - رنجیدہ ہونا - تلگین ہونا -
 دل کی بندہ - (۱) صفت رنجیدہ - تلگین -
 دل کرنا - (۱) محاورہ (۱) فاضلی کرنا - سخاوت کرنا (۲) بہادری کرنا - جرأت کرنا - ہمت کرنا (۳) خواہش کرنا -
 دل کو ڈاکرنا - (۱) محاورہ (۱) دل کو سخت کر لینا (۲) عزت کرنا (۳) مہربان برداشت کرنا -
 دل کو گھٹنا - (۱) محاورہ (۱) افسوس ہونا - غم ہونا - جلتا -
 دل کش - (۱) صفت (۱) دل کو کھینچنے والا - دل بھانے والا (۲) دل پسند - مرغوب - پسندیدہ (۳) خوبصورت - خوش نما -
 دل کشا - (۱) صفت (۱) دل کو خوش کرنے والا - دل شگفتہ کرنے والا - (۲) روشن - فراخ -
 دل کشائی - (۱) صفت (۱) خوشی - فرحت - شگفتگی -
 دل کشی - (۱) صفت (۱) دل کو بھگانا - دل کو اپنی طرف متوجہ کرنا -
 دل کشیدہ ہونا - (۱) محاورہ (۱) بیزار ہونا - رنجیدہ ہونا -
 دل کلانا - (۱) محاورہ (۱) منہموم ہونا - نا امید ہونا - افسردہ ہونا -
 دل کو پانا مال کرنا - (۱) محاورہ عاشق پرہیزگار کرنا -
 دل کو پانی کرنا - (۱) محاورہ مائل کرنا - فریفتہ کرنا -
 دل کو پتھر کرنا - (۱) محاورہ دل کو سخت کر لینا -
 دل کو پھینکا لگنا - (۱) محاورہ (۱) بے قرار ہونا - بے چین ہونا -
 دل کو چھوڑا بیٹا نا - (۱) محاورہ بہت رنج دینا -
 دل کو تاب آنا (ہونا) - (۱) محاورہ (۱) اطمینان ہونا - سکون ہونا - تسکین ہونا
 دل کو تھما مٹا - (۱) محاورہ مہربان کرنا - ضبط کرنا -
 دل کو چوٹ لگنا - (۱) محاورہ (۱) صدمہ پہنچنا -
 دل کو خون کرنا - (۱) محاورہ تلگین کرنا - سخت رنج دینا - جلانا -
 دل کو دل سے راہ ہوتی ہے - (۱) صفت (۱) ہمت دونوں طرف سے ہوتی ہے -
 دل کو سمجھانا - (۱) محاورہ تسلی دینا -
 دل کو بندھنا لگنا - (۱) محاورہ ضبط کرنا - مہربان کرنا -
 دل کو قرار ہونا - (۱) محاورہ اطمینان و تسلی ہونا - مہربان ہونا - دلچسپی ہونا -
 دل کو لینا - (۱) محاورہ (۱) دھن ہونا (۲) خواہش ہونا (۳) صدمہ ہونا -
 دل کو ٹوٹ لگنا - (۱) محاورہ (۱) دھن ٹک جانا - ایک ہی طرف توجہ ہوجانا -
 محبت ہوجانا -
 دل کو مسوسنا - (۱) محاورہ (۱) بیقراری کی حالت میں دل پر یا تھک کر کتلی ماحول کرنا -
 دل کو تانہ بنانا - (۱) محاورہ مائل کرنا - فریفتہ کرنا -
 دل کو لاکھوں سے مسلکنا - (۱) محاورہ سخت رنج پہنچانا - خوب ستلنا -

دل کو ہوا قرار تو سب کو سوچیں تو لا رہا - (۱) صفت (۱) جسے کوئی فکر نہ ہو وہی ہر بات میں لطف اٹھا سکتا ہے -
 دل کھینکا میٹھا ہونا - (۱) محاورہ (۱) جی پھلانا - بہت رغبت ہونا -
 دل کھٹا ہونا - (۱) محاورہ (۱) بیزار ہونا - حوصلہ نہ ہونا -
 دل کھٹک جانا - (۱) محاورہ (۱) شہ پڑنا - شک پڑنا -
 دل کھٹکنا - (۱) محاورہ (۱) ڈرنا - کھٹکا ہونا -
 دل کھر اکھوٹا ہونا - (۱) محاورہ (۱) ہمت میں فرق آنا - خیال خاص پیدا ہونا -
 دل کھلانا - (۱) محاورہ (۱) شگفتہ ہوجانا - خوش ہونا -
 دل کھلنا - (۱) محاورہ (۱) خوش ہوجانا - رنج دور ہوجانا (۲) خوف جاتا رہنا (۳) حوصلہ بڑھنا - ہمت پیدا ہونا (۴) روشن منیر ہوجانا -
 دل کھول کر - دل کھول کے - بے دھڑک - خاطر خواہ -
 دل کے میں نہ ہونا - (۱) محاورہ (۱) دل کا قابو میں نہ ہونا -
 دل کھینچ لینا - (۱) محاورہ (۱) دل کو فریفتہ کر لینا - مائل کر لینا -
 دل کی (۱) صفت (۱) دل - خواہش -
 دل کی آگ بھگانا - (۱) محاورہ (۱) خواہش پوری کرنا - تسکین پانا -
 دل کی آڑ لینا - (۱) محاورہ (۱) دل کا مطلب سمجھ لینا -
 دل کی کھڑاس - (۱) صفت (۱) رنج - غم - سختہ -
 دل کی بے تابی - (۱) صفت (۱) گھبراہٹ - بے چینی - بے قراری -
 دل کی پھانس - (۱) صفت (۱) غش - رنج - غم - صدمہ -
 دل کی جلتن - (۱) صفت (۱) رنج - غم -
 دل کی حسرت نکھلنا - (۱) محاورہ (۱) خواہش پوری ہونا - مُراد حاصل ہونا -
 دل کی دل میں رہنا - (۱) محاورہ (۱) خواہش پوری نہ ہونا -
 دل کی رُکاوٹ - (۱) صفت (۱) آڑوگی - افسردگی -
 دل کی سادبی - (۱) صفت (۱) صحت - دل -
 دل کی صفائی - (۱) صفت (۱) دل کا بڑی باتوں سے مبرا ہونا -
 دل کی طرح رکھنا - (۱) محاورہ (۱) عزیز رکھنا -
 دل کی دھکی کھلنا - (۱) محاورہ (۱) آڑو پوری ہونا -
 دل کی جی - (۱) صفت (۱) ہم راز - صلاح کار - مشیر -
 دل کی کہنا - (۱) محاورہ (۱) صاف بات ظاہر کر دینا (۲) وہ بات جو دگر کے دل میں ہوتا دینا -
 دل کی کانٹھ - دل کی گرہ - (۱) صفت (۱) رنج - شکوہ - شکایت -
 دل کی کانٹھ کھولنا - (۱) محاورہ (۱) عداوت دور کرنا - چھٹے ہونے کیلئے کو دینا کرنا -
 دل کی گرہ (کھنڈی) کھلنا - رنج دور ہونا - عقدہ کشائی ہونا - (۱) ظاہر ہونا -
 دل کی لگن - دل کی لاگ - (۱) صفت (۱) عشق - محبت - عاشقی -
 دل کی مٹی - (۱) صفت (۱) غم - رنج - عشق - دل کی چوٹ -
 دل کی مٹی بھگانا - (۱) محاورہ (۱) حسرت نکھلنا -
 دل کے مار ہونا - (۱) محاورہ (۱) دل پر ہاتھ کرنا - پورا اڑ کرنا -
 دل کے پتھر توڑے ہونا - (۱) صفت (۱) دل کے کٹڑے ہونا - (۱) محاورہ (۱) سخت

دل صدمہ ہونا۔ بے حد رنج ہونا۔
 دل کے پھپھولے (اگلے) پھوڑنا۔ (۱) بڑا بھلا کہہ کر دل کا عتقہ نکالنا۔
 رنج و غم کے باعث جلی ٹھی بائیں کرنا (۲) بدلہ لینا۔ (زہرا لکھنا (۳)
 درد دل کا ہر کرنا۔
 دل گذار۔ (ف۔ صفت) دل کو نرم کرنے والا۔
 دل گذار ہونا۔ (۱) محاورہ) دل نرم ہونا۔
 دل گروہ۔ (ف۔ ۱۔ ۱۔ ۱) (۱) موصلہ۔ (۲) جزات (۲) تاب۔ (۳) طاقت (۳) مبر
 برداشت۔
 دل گرفتگی۔ (ف۔ ۱۔ ۱) (۱) غم۔ رنج۔
 دل گرفتہ۔ (ف۔ صفت) غمگین۔ مغموم۔ عاشق۔
 دل گرم۔ (ف۔ صفت) (۱) پر عوش۔ شائق (۲) پُر آرزو (۳) بہادر۔
 دل گرم ہونا۔ (۱) محاورہ) اُمنگ پیدا ہونا۔ جوش پیدا ہونا۔
 دل گرما جانا۔ اُمنگ پیدا ہونا۔ خواہش پیدا ہونا۔
 دل گرمی۔ (ف۔ ۱۔ ۱) (۱) شوق۔ جوش (۲) دوستی۔
 دل گمراہ ہونا۔ (۱) محاورہ) ہیئت میں فرق آنا۔ دل بھٹکانا۔
 دل گواہی دیتا ہے۔ (۱) محاورہ) دل تائید کرتا ہے۔
 دل گھبراہٹا۔ (تص۔ مرکب) (۱) دل بے قرار ہونا۔ دل مضطرب ہونا (۲)
 دل نہ لگانا۔
 دل گیر۔ (ف۔ صفت) مغموم۔ غمگین۔
 دل چھٹانا۔ (۱) محاورہ) دل کو مائل کرنا۔ دل کو فریفتہ کرنا۔
 دل لٹو ہونا۔ (۱) محاورہ) فریفتہ ہونا۔
 دل لرزنا۔ (۱) محاورہ) ڈرنا۔ خوف کھانا۔
 دل لگا بیٹھنا۔ (۱) محاورہ) عاشق ہونا۔ محبت کرنے لگانا۔
 دل لگا رہنا۔ (۱) محاورہ) فکر رہنا۔ تشویش ہونا۔
 دل لگا کر۔ (۱) تابع فعل) توجہ سے۔
 دل لگانا۔ (۱) محاورہ) (۱) عاشق ہونا۔ محبت کرنا (۲) کسی کام پر
 متوجہ ہونا۔
 دل لگ جانا۔ (۱) محاورہ) (۱) جی بہلنا (۲) کسی کام میں مشغول ہو جانا
 (۳) غش ہونا۔ محبت ہونا۔
 دل لگی۔ (۱) (۱) (۱) ہنسی۔ مذاق۔ چہل۔ (۲) معمول بات۔ آسان بات
 (۳) مشغول۔ دل چسپی (۴) عشق۔ محبت۔ لگاؤ۔
 دل لگی باز۔ (۱) مذم۔ قرینت۔ مسخر۔
 دل لوٹ لوٹ ہونا۔ (۱) محاورہ) (۱) فریفتہ ہونا۔ عاشق ہونا۔ شیا ہونا
 دل لوٹنا۔ (۱) محاورہ) مائل کرنا۔ فریفتہ کرنا۔
 دل لہرانا۔ (۱) محاورہ) (۱) دل خوش کرنا (۲) اُمنگ پیدا ہونا۔ دل
 خوش ہو جانا۔
 دل لہو ہونا۔ (۱) محاورہ) سخت رنج ہونا۔ سخت صدمہ گذرنا۔
 دل لینا۔ (۱) محاورہ) (۱) مائل کر لینا۔ عاشق بنا لینا (۲) منشا و دریافت
 کرنا۔ غدیہ معلوم کرنا۔
 دل ماننا۔ (۱) محاورہ) خواہشوں کو روکنا۔ ضبط کرنا۔

دل مٹھی میں لینا۔ (۱) محاورہ) کسی کو قابو کرنا۔ گرویدہ کر لینا۔
 دل مٹی ہونا۔ (۱) محاورہ) خواہش نہ رہنا۔
 دل مچلنا۔ (۱) محاورہ) کسی خواہش پر لبند ہونا۔
 دل مرتھانا۔ (۱) محاورہ) دل میں کوئی خواہش نہ رہنا۔ مفسرہ ہونا۔
 دل مرحوم۔ (ف۔ ۱۔ ۱) (۱) عاشق کا دل۔ نامراد دل۔
 دل مسکنا۔ (۱) محاورہ) دل کو یاد پہنچانا۔ رنج دینا۔
 دل مسوس کر رہ جانا۔ (۱) محاورہ) دل پکڑ کر رہ جانا۔ کسی صدمہ کے باعث
 چنپ رہ جانا۔
 دل مضبوط رکھنا۔ (۱) محاورہ) پروا نہ کرنا۔ جوصلہ رکھنا۔
 دل مضطر۔ (ف۔ ۱۔ ۱) (۱) بے چین دل۔
 دل مکدر ہونا۔ (۱) محاورہ) دل میں ملال آ جانا۔ دل صاف نہ رہنا۔
 دل ملا۔ پینا۔ وہ باہمی رشتہ جو دو سہیلیاں آپس میں جوڑ لیتی ہیں۔
 دل نکلنا۔ (۱) محاورہ) دل مسوسا۔ دل مروڑنا۔
 دل ملنا۔ (۱) محاورہ) دل کا موافق ہونا۔ یک جہان و دو قالب ہونا۔
 دل موم ہونا۔ (۱) محاورہ) ترس آنا۔ رگم آنا۔ دل کا نرم ہونا۔
 دل موہ لینا۔ (۱) محاورہ) کسی کا دل اپنی طرف مائل کر لینا۔ عاشق بنا لینا۔
 فریفتہ کر لینا۔
 دل میل کرنا۔ (۱) محاورہ) رنج کرنا۔ دل اُداس کرنا۔ دل کو متفکر کرنا۔ دل
 پر غم لانا۔
 دل میں آنا۔ (۱) محاورہ) خیال گزرنے۔
 دل میں باب لانا۔ (۱) محاورہ) بدگمان ہونا۔ بدظن ہونا۔ تہذیب میں پڑنا۔
 دل میں آجھو۔ (۱) محاورہ) (۱) کبھی تو شرمایا کرو (۲) دل میں قابل توجہ ہو۔
 دل میں ٹھنڈنا۔ (۱) محاورہ) پکا ارادہ ہونا۔ قائم رہنا۔
 دل میں جگہ کرنا۔ (۱) محاورہ) (۱) راہ و رسم بڑھانا۔ دوست ہونا (۲)
 خصوصیت پیدا کرنا۔
 دل میں چھٹنا۔ (۱) محاورہ) اثر کرنا۔ پسند آنا۔
 دل میں چٹکیاں لینا۔ (۱) محاورہ) طعنے دینا۔ درپردہ آزار پہنچانا۔
 دل دکھانا۔
 دل میں چوٹ لگانا۔ (۱) محاورہ) صدمہ پہنچانا۔ رنج ہونا۔
 دل میں چور بیٹھنا۔ (۱) محاورہ) بدگمانی ہونا۔ بدظنی ہونا۔
 دل میں پھید ہونا۔ (۱) محاورہ) سخت صدمہ پہنچانا۔
 دل میں ذراخ پڑنا۔ (۱) محاورہ) صدمہ ہونا۔ رنج ہونا۔
 دل میں دل ڈالنا۔ (۱) محاورہ) اپنی بات کا دوسرے کو یقین دلانا۔
 دل میں ڈالنا۔ (۱) محاورہ) دوسرے کے ذہن میں ڈالنا۔ خدا کی طرف
 سے اہام ہونا۔ القا ہونا۔
 دل میں ڈرنا۔ (۱) محاورہ) اندھی اندر خوف کھانا۔
 دل میں راہ کرنا۔ (۱) محاورہ) دوست بننا۔ رسائی پیدا کرنا۔
 دل میں رکھنا۔ (۱) محاورہ) پوشیدہ رکھنا۔ ظاہر نہ کرنا۔ گپٹ رکھنا۔
 دل میں زہر بھرا ہونا۔ (۱) محاورہ) دل میں کسی کے متعلق دشمنی یا بدی ہونا
 دل میں سمانا۔ (۱) محاورہ) (۱) کبھی بات کا یقین ہونا (۲) ہر وقت خیال

دل میں رہنا (۳) ارادہ ہونا۔
 دل میں شریانا۔ (۱) محاورہ شرمندگی ظاہر نہ ہونے دینا۔
 دل میں غبار آنا۔ (۱) محاورہ کدورت رکھنا۔
 دل میں فرق آنا۔ (۱) محاورہ (۱) شبہ پڑنا۔ گمان گذرنا۔ اعتبار اٹھنا۔
 (۲) شکر رنجی ہونا۔
 دل میں کانٹا سا کھٹکنا۔ (۱) محاورہ ناگوار گزرنا۔ بار خاطر ہونا۔
 دل میں کیٹ ہونا۔ (۱) محاورہ کینز ہونا۔ دشمنی ہونا۔
 دل میں کڑھنا۔ (۱) محاورہ رنج کرنا مگر ظاہر نہ ہونے دینا۔
 دل میں کھینا۔ (۱) محاورہ دل پر اثر ہونا۔
 دل میں کھٹک جانا۔ (۱) محاورہ بشر پڑ جانا۔ اثر کر جانا۔
 دل میں کھوٹ ہونا۔ (۱) محاورہ ذکا ہونا۔ نیت ٹھیک نہ ہونا۔
 دل میں گرہ پڑنا۔ (۱) محاورہ رنج دلال ہونا۔
 دل میں گڑھنا۔ (۱) محاورہ پسند آنا۔ اثر ہونا۔
 دل میں گھاؤ پڑنا۔ (۱) محاورہ صدر پر پہننا۔
 دل میں گھر کر گیا۔ (۱) محاورہ دوستی پیدا کرنا۔ محبت کرنا۔
 دل میں گھونسا لگنا۔ (۱) محاورہ اچانک کوئی صدر پر پہننا۔
 دل میں لانا۔ (۱) محاورہ دل نشین کرنا۔

دل میں لہو چھوٹنا۔ (۱) محاورہ بہت خوش ہونا۔
 دل میں لگن لگنا۔ (۱) محاورہ ہشوق پیدا ہونا۔
 دل میں لہر آنا۔ (۱) محاورہ خیال آنا۔ اُمتگ اٹھنا۔
 دل میں ناسور پڑنا۔ (۱) محاورہ سخت صدر پر پہننا۔ بے حد رنج ہونا۔
 دل میں نش ہونا۔ (۱) محاورہ نہ چھوٹنے والا اثر ہونا۔
 دل میں نیت کرنا۔ (۱) محاورہ ارادہ کرنا۔
 دل میں وسوسے اٹھنا۔ (۱) محاورہ بڑے بڑے خیالات آنا۔
 دل میں ہوک اٹھنا۔ (۱) محاورہ رنج و غم کی بات یاد آنا۔
 دل میں ہول سما نا۔ (۱) محاورہ خوف زدہ ہو جانا۔ گھبراہٹ ہونا۔
 دل میں ہونا۔ (۱) ارادہ ہونا۔ قصد ہونا (۲) خواہش ہونا۔ تننا ہونا (۳) خیال ہونا۔

دل ہا صبور۔ (۱) محاورہ بے قرار دل۔ بے چین دل۔ نہ صبر کرنے والا دل۔
 دل نشین۔ (۱) محاورہ دل میں بیٹھنے والا۔ دل پر اثر کرنے والا۔ دل پر نقش ہو جانے والا۔
 دل نشین کرنا۔ (۱) محاورہ دل میں بٹھانا۔ دل پر نقش کرنا۔ دل میں جمانا
 دل نواز۔ (۱) محاورہ دل کو تسلی دینے والا۔ دوست۔ یار۔
 دل نوازی۔ (۱) محاورہ (۱) تسلی۔ تسلی (۲) مہربانی۔ عنایت۔
 (۳) ناز و تحریز۔
 دل نہاد۔ (۱) محاورہ جس پر دل مائل ہو۔ توجہ۔ مشوق۔
 دل وابستہ ہونا۔ (۱) محاورہ عاشق ہونا۔ فریفتہ ہونا۔ مطیع ہونا۔
 دل والا۔ (۱) محاورہ (۱) سخی۔ فیاض (۲) بہادر۔ دلیر۔ بھری۔ بھرا۔ بہت
 دل و جان۔ (۱) محاورہ (۱) سیارا۔ عزیز۔ محبوب۔
 دل و جان سے۔ بڑی خوشی سے۔ شوق سے (۲) بخوبی۔ نہایت۔ بے حد۔

دل ہی دل میں۔ اندر ہی اندر۔ مجھے چکے۔
 ڈلار۔ (ڈ۔ لار) ڈہ۔ (۱) مذ لاد۔ پیار۔ محبت۔
 ڈلارا۔ (ڈ۔ لارا) ڈہ۔ (۱) صفت [پیارا۔ عزیز۔ لاڈلا۔
 ڈلاری۔ (ڈ۔ لاری) ڈہ۔ (۱) صفت [بیاری۔ عزیز۔ لاڈلی۔ ڈلارا کی تائینٹ۔
 ڈلاس۔ (ڈ۔ لاس) ڈن۔ (۱) مذ تسلی۔ تسلی۔ تسکین۔
 ڈلاسا دینا۔ تسلی دینا۔ بہت بندھنا۔ جی بڑھانا۔
 ڈلاک۔ (ڈل۔ لاک) ڈع۔ (۱) مذ وہ شخص جو مہم میں بدن ملتا ہے۔ ہاشیا
 ڈلال۔ (ڈل۔ لال) ڈع۔ (۱) مذ (۱) سودا کرنے والا۔ آڑھتیا (۲) بھڑوا۔
 (۳) وہ شخص جو غریب اور بیچنے والے کو ملائے۔
 ڈلاکت۔ (ڈل۔ لکت) ڈع۔ (۱) صفت [ہدایت۔ دلہنائی (۵) اطلاق۔ عاید ہونا (۶) پتہ۔ مزارخ
 (۳) دلیل۔ ثبوت (۴) ہدایت۔ دلہنائی (۵) اطلاق۔ عاید ہونا (۶) پتہ۔ مزارخ
 دبدبہ۔ رعب۔ شان۔ عظمت۔
 ڈلاکت برستا۔ (۱) محاورہ رعب دراب ہونا۔ شان و شوکت ظاہر ہونا۔
 ڈلالہ۔ (ڈل۔ لالہ) ڈع۔ (۱) صفت [کٹنی۔ مشاطہ۔
 ڈلالی۔ (ڈل۔ لالی) ڈع۔ (۱) صفت [مش (۱) سودا کرنے کی اہمیت (۲) دلال کا
 پیشہ (۳) کٹنا۔ پیر۔
 ڈلاور۔ (ڈ۔ لاور) ڈف۔ (۱) صفت [بہادر۔ شجاع۔ جمع : ڈلاوران۔
 ڈلاوری۔ (ڈ۔ لاور) ڈری۔ (۱) صفت [بہادری۔ شجاعت۔
 ڈلال۔ (ڈل۔ لال) ڈال۔ (۱) صفت [محبت۔ وجہ۔ سبب۔ ثبوت۔ شہادت (۲)
 دلیل کی جمع۔
 ڈلانی۔ (ڈل۔ لانی) ڈہ۔ (۱) صفت [رضائی۔ رونی کی فرد۔
 ڈلبا۔ (ڈل۔ با) ڈہ۔ (۱) مذ [دلیل۔ بھگورنا۔ وہ پرندہ جس کو پھوپھا کر دوسرے
 لڑنے والے پرندوں کو دلیر بنا دیتے ہیں۔
 ڈلتی۔ (ڈل۔ لت) ڈی۔ (۱) صفت [جانور کی پھلی دونوں لاتیں۔
 ڈلتی چلانا۔ ڈلتی مارنا۔ جالور کھپلی دونوں ٹانگیں ایک ساتھ اٹھنا
 کرنا۔
 ڈلدر۔ (ڈل۔ دلدر) ڈہ۔ (۱) مذ (۱) افلاس۔ محتاجی۔ تنگ دستی (۲) نخوت۔

تنگ حالی (۳) محس چیرہ منخوس چیز (۴) پلید آدمی۔
 دلدر بھیگنا۔ (۱) محاورہ) افلاس دور ہونا۔ نحوست ٹلنا۔
 دلدر دور ہونا۔ (۱) محاورہ) تنگ حالی کا خوش حالی سے بدل جانا۔ افلاس
 یا نحوست کا جانا رہنا۔
 دلدر نکالنا۔ (۱) محاورہ) گھر کو صاف ستھرا کرنا۔
 دلدری۔ (د۔ ل۔ د۔ ری) (۱) مذ [۱-۱-۱] غریب (۳) منخوس
 (۴) میلا کھیلا آدمی۔
 دلزل۔ (دل۔ دل) (۱) مذ [۱-۱-۱] گلاب۔ دھان۔
 دلزل میں پھیننا۔ (۱) محاورہ) کچھ میں پھیننا۔ مشکل یا دقت میں پڑنا۔
 دلزل۔ (دل۔ دل) (۱) مذ [۱-۱-۱] سیاحی ماہل پھر جو حاکم اسکندر یہ متوقش
 نے رسول اللہ کی خدمت میں بھیجا اور آپ نے حضرت علیؓ کو عطا
 فرمایا (۲) ذوالجناح۔
 دلزل سوار۔ (۱) مذ [۱-۱-۱] حضرت علیؓ کا لقب۔
 دلزل نکالنا۔ (۱) محاورہ) محرم میں گھوڑے کا تہی جلوس نکالنا۔
 دلزل۔ (دل۔ دل) (۱) مذ [۱-۱-۱] دوہرا (۲) ڈبلا۔
 دلزل۔ (۱) مذ [۱-۱-۱] شیشے کا لباس جو درویش پہنتے ہیں۔
 دلزل پوش۔ (۱) مذ [۱-۱-۱] گڈڑی پہننے والا۔ فیتز۔ درویش۔
 دلک۔ (دل۔ دل) (۱) مذ [۱-۱-۱] چمک۔ جھلک۔ دمک (۲) کپکپی۔
 لرزش۔ جنبش۔
 دلکنا۔ (دل۔ دل) (۱) مذ [۱-۱-۱] چمکنا۔ دکنا (۲) مقرر ہونا۔ لرزنا۔
 کا پنا۔ ہلنا۔
 دلکھنا۔ (دل۔ دل) (۱) مذ [۱-۱-۱] بات کا مٹنا۔ ٹوکنا۔ اعتراض کرنا۔
 انکار کرنا۔ متنع کرنا۔
 دلکی۔ (دل۔ دل) (۱) مذ [۱-۱-۱] گھوڑے کی ایک چال جس میں ایک وقت
 میں تین پاؤں اٹھتے ہیں۔
 دللمہ۔ (دل۔ دل) (۱) مذ [۱-۱-۱] ایک سالن جس میں قیہ اور
 پنیر بیٹھن یا گاجر میں بھر کر پکاتے ہیں (۳) ایک قسم کی
 زہریلی کھلی۔
 دلنا۔ (دل۔ دل) (۱) مذ [۱-۱-۱] موٹا موٹا پینا۔ درورا کرنا۔ دال کو چکی میں
 پس کر نصف نصف کرنا۔
 دلوا۔ (دل۔ دل) (۱) مذ [۱-۱-۱] آسمان کا گیارھواں برج۔
 دلوانا۔ (دل۔ دل) (۱) مذ [۱-۱-۱] کسی سے دلانا۔ عطا کرنا۔ سپرد کرنا۔
 دلوانا۔ (دل۔ دل) (۱) مذ [۱-۱-۱] موٹا موٹا پونا۔ درورا کرنا۔ دانہ کرنا۔
 نصف نصف کرنا۔
 دلوانی۔ (دل۔ دل) (۱) مذ [۱-۱-۱] دلوانے کی اہرت۔
 دلوانی۔ (دل۔ دل) (۱) مذ [۱-۱-۱] ایلچی۔ سفیر۔ دلیل۔
 دلہا۔ دو گولہا۔ (دل۔ دل) (۱) مذ [۱-۱-۱] وہ مرد جس کی شادی ہو۔
 بنا۔ نوشہ (۲) داماد۔
 دلھن۔ (دل۔ دل) (۱) مذ [۱-۱-۱] وہ عورت جس کی شادی
 ہو۔ عروس (۲) زوجہ۔ بیوی (۳) بہو (۴) عزیزہ۔ پیاری (۵) آراستہ۔

دلھن بن کے چلنا۔ (۱) محاورہ) (۱) بن ٹھن کے چلنا۔ سرخ لباس پہن
 کر چلنا (۳) مشوقانہ انداز سے چلنا۔
 دلھنڈی۔ (دل۔ دل) (۱) مذ [۱-۱-۱] ہولی کا دوسرا دن۔
 دلہی۔ (دل۔ دل) (۱) مذ [۱-۱-۱] ہندوستان کا دارالحکومت۔ دہلی۔
 دلہی دکھانا۔ (۱) محاورہ) بچے کو کھلاتے ہوئے بٹنوں میں لاتھ دے کر
 سر سے اڑھنا کر دینا۔
 دلہی دور ہے۔ (۱) مذ [۱-۱-۱] ابھی منزل مقصود دور ہے۔
 دلہی کا روڑا۔ (۱) مذ [۱-۱-۱] بہت چالاک آدمی۔
 دلہی میں رہ کر بھارتی جھوٹا لگایا۔ (۱) مذ [۱-۱-۱] لائٹوں کی صحبت
 میں بیٹھ کر بھی نالائق ہی رہے۔
 دلہیا۔ (دل۔ دل) (۱) مذ [۱-۱-۱] دلا بھو اناج (۲) موٹا پسا ہوا غلہ۔ کپتہ
 یا پکا ہوا۔
 دلیر۔ (دل۔ دل) (۱) مذ [۱-۱-۱] بہادر۔ شجاع۔ سورا (۲) بے خوف
 بڈر (۳) گت رخ۔
 دلیرانہ۔ (دل۔ دل) (۱) مذ [۱-۱-۱] جو امردی سے۔ جرات۔
 سے (۲) بے باکانہ (۳) گت خانہ۔
 دلیری۔ (دل۔ دل) (۱) مذ [۱-۱-۱] بہادری۔ شجاعت۔
 جرات (۲) بے باکی۔
 دلیل۔ (دل۔ دل) (۱) مذ [۱-۱-۱] حجت (۲) دہر (۳) ثبوت۔
 شہادت۔
 دلیل کامل۔ (دل۔ دل) (۱) مذ [۱-۱-۱] بڑا ثبوت۔
 دلیل لانا۔ ثبوت دینا۔ حجت پیش کرنا۔
 دلیل ناقص۔ بوری بات۔ کزدر ثبوت۔
 دلیل بولنا۔ کھڑا ہونے یا بٹھلنے اور قدامد کرنے کی سزا ملنا۔

دم

دم۔ (د۔ د) (۱) مذ [۱-۱-۱] سانس۔ نفس (۲) پیل۔ منٹ۔ لحظہ۔ وقت (۳)
 زندگی (۴) روح۔ جان (۵) ذات (۶) مجھے کا کش (۷) بھٹی یا
 تھوڑی ہوا (۸) پانی کا گھونٹ (۹) کھانے کو دھبی آگ پر رکھنا
 (۱۰) طاقت۔ قوت۔ زور (۱۱) تلوار کی دھار (۱۲) نیزے کی نوک
 (۱۳) مضبوطی۔ خوبی (۱۴) لچک (۱۵) خوشی۔ فرحت (۱۶) اولوالعزمی
 بلند و صلی (۱۷) دھوکہ۔ فریب۔ دغا (۱۸) انمول۔ منتر۔ دھا جو بڑھ
 کر چھوٹی جاتے (۱۹) عذر۔ تیج (۲۰) شہی (۲۱) گھر۔ خانہ (۲۲) دقلن
 (۲۳) (د۔ د) (۱) مذ [۱-۱-۱] جان۔ روح۔
 دم آب۔ (د۔ د) (۱) مذ [۱-۱-۱] پانی کا گھونٹ (۲) تھوڑا سا پانی۔
 دم آجانا۔ (۱) محاورہ) جان آجانا۔ زندگی پیدا ہونا۔
 دم آختر ہو جانا۔ (۱) محاورہ) مر جانا۔

دمِ آخریں - (ف - ۱ - مذ) نزع کا وقت - آخری سانس -
 دمِ آنا - (۱ - محاورہ) لپک جانا -
 دمِ آنکھوں میں اٹکنا - (۱ - محاورہ) کچھ زندگی باقی رہنا -
 دمِ آنکھوں میں ہونا - (۱ - محاورہ) حالت نزع میں ہونا -
 دمِ اٹکا ہونا - (۱ - محاورہ) دمِ ڈکا ہونا - ذرا سی سانس باقی رہنا -
 دمِ اٹک کر رہ جانا - (۱ - محاورہ) سانس کا سینے میں رُک کر رہ جانا -
 دمِ اٹکنا - (۱ - محاورہ) (۱) سانس کا سینے میں رُکنا (۲) وقت نزع
 آہستہ آہستہ جان نکلنا -
 دمِ اختصار - (ف - ۱ - مذ) نزع کا عالم -
 دمِ اگھر جانا - (۱ - محاورہ) تھکاوٹ کی وجہ سے سانس کا بہت تیز
 چلنا سانس چڑھ جانا -
 دمِ اگھرنا - (۱ - محاورہ) سانس کا بے قاعدہ چلنا -
 دمِ اگھنا - (۱ - محاورہ) (۱) سانس رُکنا (۲) وقت نزع سانس کا بے قاعدہ
 ہونا (۳) دل گھبرانا -
 دمِ اگھنا - (۱ - محاورہ) جی گھبرانا - جی اگھنا -
 دمِ اوپر کو کھینچنا - (۱ - محاورہ) دور سے سانس لینا -
 دمِ باز - (ف - صفت) (۱) مگکار - فریبی - دھوکہ باز (۲) جھلسا سا جھلگ
 (۳) تھے کام لگانے والا -
 دمِ بازی - (ف - ۱ - صفت) دھوکہ بازی - دغا بازی - مکاری -
 دمِ باقی نہ ہونا - (۱ - محاورہ) (۱) ہٹکا بٹکا رہ جانا سانس باقی نہ رہنا -
 (۲) حوصلہ نہ رہنا -
 دمِ باندھنا - (۱ - محاورہ) (۱) سانس روک لینا (۲) متوجہ ہونا -
 دمِ بخود - (ف - صفت) چُپ چاپ - ساکت و صامت -
 دمِ بدم - (ف) (۱) ہرگھڑی - ہر وقت - برابر (۲) متواتر - پلے دے پلے -
 دمِ بڑھانا - (۱ - محاورہ) بے لہجے سانس لینے کی مشق کرنا -
 دمِ بڑھ جانا - (۱ - محاورہ) قوت زیادہ ہونا -
 دمِ بنا رہے - (کلمہ دما) جیتے رہو - سلامت رہو -
 دمِ بند ہونا - (۱ - محاورہ) (۱) چُپ ہونا - ساکت ہونا - خاموش ہونا
 (۲) سانس رُکنا (۳) تنگ ہونا - عاجز ہونا (۴) گھبرانا - جی گھبرانا -
 دمِ بولانا - (۱ - محاورہ) جی گھبرانا - وحشت ہونا -
 دمِ بھر - (۱) تابع فعل - ذرا - لحظہ بھر - تھوڑی دیر کے لیے -
 دمِ بھر آنا - دمِ بھر جانا - (۱ - محاورہ) سانس پھول جانا -
 دمِ بھڑانا - (۱) کپوتر کے پوٹے میں ہوا بھڑنا (۲) پہلوانوں کا اپنے
 شانگروں کو زور کر کے تھکا دینا -
 دمِ بھڑنا - (۱ - محاورہ) (۱) سانس بڑھنا یا پھولنا (۲) ہر وقت کسی کی تعریف
 کرنا (۳) محبت کا دعویٰ کرنا (۴) کیڑوں کا بولنا (۵) یقین کرنا - ایمان لانا -
 دمِ بخت - (ف - ۱ - مذ) بھاپ میں پکا ہوا کھانا -
 دمِ بخت ہو کر رہ جانا - (۱ - محاورہ) ناراض ہو کر یا غصہ منبسط کر کے
 چُپ ہو رہنا -
 دمِ پیر آنا - (۱ - محاورہ) پکنے کے قریب ہونا -

دمِ پر بننا - دمِ پر بن جانا - (۱ - محاورہ) مرنے کے قریب ہونا -
 نصیب پڑنا -
 دمِ پر چڑھنا - (۱ - محاورہ) دھوکے میں آ جانا -
 دمِ پر چھوڑ دینا - (۱ - محاورہ) کھانے کو جیسی آج پر رکھ دینا -
 دمِ پر لانا - (۱ - محاورہ) فریب میں پھینسانا -
 دمِ پس - (ف - ۱ - مذ) حالت نزع - آخری دم -
 دمِ پھڑکنا - (۱ - محاورہ) (۱) عاشق ہونا - فریفتہ ہونا (۲) خواہش سے
 بے تاب ہونا - مضطرب ہونا -
 دمِ پھولنا - (۱ - محاورہ) سانس پڑھنا -
 دمِ پھونکنا - (۱ - محاورہ) رُوح ڈالنا - جسم میں جان ڈالنا -
 دمِ پھینکنا - (۱) جیتے جی - زندگی میں -
 دمِ توڑنا - (۱ - محاورہ) نزع کی حالت میں ہونا - جان کنی کی حالت میں
 ہونا - سانس اگھنا -
 دمِ تیخ - (ف - ۱ - مذ) تلوار کی کاٹ - تیزی یا دھار -
 دمِ تیخ پر راہ ہونا - (۱ - محاورہ) موت کا خطرہ ہونا -
 دمِ ٹوٹنا - (۱ - محاورہ) (۱) تیراک یا بھاگنے والے کا سانس پھولنا -
 (۲) سانس اگھنا (۳) حالت نزع میں ہونا -
 دمِ ٹھہرنا - (۱ - محاورہ) سانس کا ٹھکانے سے ہونا یا قرار پکڑنا -
 دمِ بھانسا دینا - (۱ - محاورہ) دھوکہ دینا - فریب دینا - بھل دینا -
 دمِ پھراننا - (۱ - محاورہ) اپنے تئیں مردہ ظاہر کرنا - دم روک لینا (۲)
 پہلو پی کرنا - ٹالنا - کسی کام کے کرنے سے گھبراننا -
 دمِ پڑھنا - (۱ - محاورہ) سانس پڑھنا - پانڈنا -
 دمِ چلا جانا - (۱ - محاورہ) فریفتہ ہونا - عاشق ہونا -
 دمِ چھوڑنا - (۱ - محاورہ) مرجھانا -
 دمِ خشک ہونا - (۱ - محاورہ) ڈرنا - خوف کھانا -
 دمِ تنھا ہونا - (۱ - محاورہ) جی گھبرانا - سانس رُکنا -
 دمِ خم - (ف - ۱ - مذ) (۱) طاقت - قوت - استواری - مضبوطی (۲) تلوار کی
 دھار اور تیزگی (۳) اوسان - ہوش - حواس -
 دمِ خنجر - (ف - ۱ - مذ) خنجر کی دھار -
 دمِ دار - (ف - صفت) (۱) جاندار - مضبوط - طاقت ور - مدتوں رہنے
 اور چلنے والی چیز - (۲) باڑھ دار - دھار دار -
 دمِ دار بخت - (ف - ۱ - مذ) دعویٰ - حوصلہ -
 دمِ دروونہ ہونا - (۱ - محاورہ) (۱) مردہ ہونا (۲) مرنے کے قریب ہونا
 (۳) طاقت نہ ہونا -
 دمِ دلاسا - (ف - ۱ - مذ) پکنی چوڑھی باتیں - تسلی - تشفی - پہلاوا پھسلاوا
 خوش آمد -
 دمِ دم کی - ہر وقت کی - ہر لحظہ کی -
 دمِ دھاگہ - (۱ - مذ) فریب - دھوکہ - جھانسا -
 دمِ دھاگے بتانا - (۱ - محاورہ) دھوکہ دینا - جھانسانا -
 دمِ دھکدھکی میں ہونا - (۱ - محاورہ) جاملنی کا عالم ہونا - نزع میں ہونا -

دَم دیکھنا۔ (۱- محاورہ) تیزی کی جانچ کرنا۔ نزع کے وقت سانس دیکھنا
 دَم دینا۔ (۱) مر جانا (۲) فریب دینا (۳) فریفتہ ہونا (۴) کھانے کو
 ہلکی آج پر رکھنا۔ تلوار کو کم کر کے دیکھنا۔ کسی چنگی ہوئی شے میں ہونا
 بھرنے (۵) تلوار کو آب دینا (۶) حقہ کی ہوا خارج ہونا۔
 دَم زخمیت۔ (ف- ۱- مذ) زخمیت کا وقت۔ ہنگام موت۔
 دَم زخمیت کے وقت۔
 دَم زکنا۔ (۱- محاورہ) (۱) سانس زک کر کے آنا (۲) منیق النفس کا عارضہ
 ہونا (۳) دل گھبراتا (۴) عاجز ہونا۔ تنگ آنا۔
 دَم روکنا۔ (۱- محاورہ) (۱) جس دَم کرنا (۲) عاجز کرنا۔
 دَم رکھنا۔ (۱- محاورہ) (۱) طاقت رکھنا (۲) چُپ رہنا (۳) حرکت نہ کرنا۔
 دَم زدن۔ (ف- محاورہ) (۱) دَم مارنا۔ سانس لینا (۲) کچھ کہنا۔
 دَم زدن میں۔ (ف- ۱- مذ) فوراً بہت جلدی۔
 دَم زنی۔ (ف- صفت) چُپ رہنا۔
 دَم سادھنا۔ (۱- محاورہ) (۱) جس دَم کرنا (۲) چُپ رہنا (۳) حرکت نہ کرنا۔
 دَم ساز۔ (ف- صفت) (۱) رازدار۔ ہمزاز (۲) آس دینے کے لیے ساتھ گانے
 والا۔ شامل آواز (۳) متفق۔ موافق (۴) دوست۔ ہمدم۔ یار۔
 دَم سازی۔ (ف- ۱- صفت) (۱) دوستی۔ بے تکلفی (۲) اتفاق (۳) میل
 کرنا۔ کابل۔
 دَم سحر۔ (ف- ۱- مذ) مہج کے وقت۔
 دَم سرد۔ (ف- ۱- مذ) ٹھنڈی سانس۔ آہ سرد۔
 دَم سسکھانا۔ (۱- محاورہ) ڈرانا۔ دھمکانا۔
 دَم سوکھنا۔ (۱- محاورہ) ڈرنا۔ خوف کھانا۔ کبھی کرنا۔
 دَم سولی پر ہونا۔ (۱- محاورہ) (۱) بہت پریشان ہونا۔ جان کو
 خطرہ ہونا۔
 دَم سیندنا۔ (۱- محاورہ) دَم سادھنا۔ خاموشی اختیار کرنا (۲)۔
 دَم سٹاری۔ (ف- ۱- صفت) مرتے وقت کے سانس رگنا۔
 دَم صبح۔ (ف- ۱- مذ) صبح کا وقت (۲) ٹوٹنا۔
 دَم ضیق میں کرنا۔ (۱- محاورہ) تنگ کرنا۔ زنج کرنا۔
 دَم عیسیٰ گ۔ (ع- ۱- مذ) حضرت عیسیٰ کی پھونک جس سے مرگہ زندہ ہو
 جاتا تھا (۲) صحت بخش۔ جان ڈالنے والا۔
 دَم غیبت ہونا۔ (۱- محاورہ) مہترک ہونا۔ قابل قدر ہونا۔
 دَم قتا ہونا۔ (۱- محاورہ) (۱) مزاجنا (۲) ڈرنا۔ خوف کھانا۔ رعب
 غالب ہونا۔
 دَم قدم۔ (ف- ۱- مذ) (۱) سانس اور چلنے کی طاقت (۲) زندگی۔ ذات
 ہستی۔ دیکھ (۳) سلامتی۔
 دَم قدم کی برکت۔ (۱- صفت) کسی کی ذات کی وجہ سے بہتری ہونا۔
 دَم قدم کی غیر۔ (۱- صفت) جان کی سلامتی۔ فیروز کی دعا۔
 دَم کا دام سے۔ (۱- صفت) زندگی کے ساتھ دنیا کی رونق ہے۔
 دَم کا کیا بھروسہ۔ (۱- صفت) زندگی کا کوئی اعتبار نہیں۔

دَم کا جھمان۔ (۱- صفت) (۱) جلد جانے والا شخص۔ مرنے کے قریب شخص۔
 دَم کھرنا۔ (۱- محاورہ) (۱) چادلوں کا پھکانا (۲) دُعا یا انمول پڑھ کر چٹو کھنا۔
 (۳) آگ بجھانا۔
 دَم کش۔ (ف- صفت) (۱) گیتے کی آواز کے ساتھ آواز ملانے والا (۲)
 دَم بچھنے والا یا دَم لینے والا (۳) بلا پینے والا۔
 دَم کشی۔ (ف- ۱- صفت) (۱) منیق النفس کی بیماری۔ دَمہ (۲) چُپ۔
 (۳) دَم لینا۔
 دَم کولے رہنا۔ دَم لے کر بٹھ جانا۔ (۱- محاورہ) (۱) سانس نہ لینا (۲)
 چُپ ہو جانا (۳) ٹال جانا (۴) سنی ان سنی کرنا۔
 دَم کھانا۔ (۱- محاورہ) (۱) دھوکہ کھانا (۲) تنگ کرنا (۳) بار بار تھکانا کرنا
 (۴) کھانے کا ہلکی آج پر چھوڑا جانا (۵) خاموش رہنا (۶) صبر کرنا۔
 (۶) دَم لینا۔
 دَم کھینکے میں پڑنا۔ (۱- محاورہ) تذبذب میں پڑنا۔
 دَم کھینا۔ (۱- محاورہ) نزع کے وقت سانس کا ڈر کر پڑنا۔ دَم ٹوٹنا۔ دَم اکھڑنا۔
 دَم کھینچنا۔ (۱- محاورہ) (۱) چُپ رہنا (۲) سسکے کا ٹھونٹ لینا۔
 دَم کی روشنی۔ (۱- صفت) ذات کا فیض۔
 دَم کے دَم میں۔ تھوڑی سی دیر میں۔ فوراً۔
 دَم کے ساتھ۔ زندگی بھر۔ تاحیات۔
 دَم کے ساتھ لگا ہونا۔ (۱- محاورہ) ہر وقت ساتھ رہنا۔ پیچھا نہ چھوڑنا۔
 دَم گے میں اٹکنا۔ (۱- محاورہ) نزع کی حالت میں سانس رگنا۔
 دَم گھانا۔ (۱- محاورہ) (۱) وحشت ہونا (۲) تھکان ہونا۔
 دَم گھٹنا۔ (۱- محاورہ) (۱) سانس رگنا۔ دَم بند ہونا (۲) گھبراہٹ ہونا۔
 دَم گھونٹ گھونٹ کر رکھنا۔ (۱- محاورہ) (۱) زبردستی رکھنا (۲)
 دَم گھونٹ گھونٹ کر مارنا۔ (۱- محاورہ) (۱) جلا جلا کر مارنا (۲)
 دَم گھونٹنا۔ (۱- محاورہ) سانس روکنا۔
 دَم لیوں پر آجانا۔ (۱- محاورہ) (۱) جاں بلب ہونا۔ سخت تکلیف میں جانا
 دَم لگانا۔ (۱- محاورہ) (۱) حقہ پینا (۲) چوس پینا۔
 دَم لگنا۔ (۱- محاورہ) (۱) حقہ کا دھواں دماغ کو چڑھانا (۲) چوس کے نشے
 کا اثر ہونا (۳) حقہ کا پیا جانا۔
 دَم لو۔ (۱- محاورہ) جلدی نہ کرو۔ صبر کرو۔
 دَم لے لو۔ (۱- محاورہ) آرام کرو۔ ریستہ لو۔
 دَم لینا۔ (۱- محاورہ) (۱) سانس لینا (۲) سستا نا۔ ٹھہرنا (۳) باز رہنا (۴)
 چپکا ہو رہنا۔
 دَم لینے کی فرصت نہیں۔ (۱- صفت) بہت کم فرصت ہے۔
 دَم مارنا۔ (۱- محاورہ) (۱) ٹوٹنا (۲) شیخی مارنا۔ دعوئی کرنا۔
 دَم مارنے کی بات نہیں۔ (۱- محاورہ) حذر کرنے کا عمل نہیں۔
 دَم مارنے کی جگہ نہیں۔ (۱- محاورہ) کچھ بس نہیں چلتا۔ کچھ کہا نہیں جاتا۔

دُم مارنے والا۔ (اصف) دمل دینے والا۔ بولنے والا۔ منہ سے بات نکالنے والا۔
 دُم مَرْدَن۔ (زن) منہ مرنے کے وقت۔ نزع کے وقت۔
 دُم سست قلندر دھڑ رگڑا۔ (مقولہ) قلندر کھنگ گھومتے وقت کہتے ہیں۔
 دُم میں۔ (۱) فوراً۔ فی الفور۔ پل بھر میں۔ لمحہ بھر میں۔
 دُم میں آنا۔ (۱) محاورہ) دھوکہ کھانا۔
 دُم میں دُم آنا۔ (۱) محاورہ) ایمان ہونا۔ جان میں جان آنا۔ زندگی کی اُمید ہونا۔ تسلی ہونا۔
 دُم میں دُم رہنا۔ (۱) محاورہ) جیتے رہنا۔ زندگی رہنا۔
 دُم میں دُم نہ ہونا۔ (۱) محاورہ) سکت نہ ہونا۔ قوت نہ ہونا۔
 دُم میں لانا۔ (۱) محاورہ) فریب دینا۔ بہکانا۔
 دُم ناک میں کرنا۔ (۱) محاورہ) تنگ کرنا۔ عاجز کرنا۔ ستانا۔
 دُم ناک میں ہے۔ (۱) محاورہ) سخت تنگ ہے۔ عاجز ہے۔
 دُم نکلنا۔ (۱) جان نکالنا (۲) ڈرا دینا۔
 دُم نکل جانا۔ (۱) محاورہ) (۱) جان نکلنا (۲) نزع میں ہونا (۳) ڈر جانا۔
 دُم نہ مارنا۔ (۱) محاورہ) (۱) کچھ نہ بولنا۔ چُپ رہنا (۲) مان کر قائل ہو جانا (۳) اُمت نہ کرنا۔
 دُم نہ ہونا۔ (۱) محاورہ) (۱) طاقت نہ ہونا (۲) جان نہ ہونا۔
 دُم نہیں بدن میں نام زور اور خال۔ (۱) مثل) دیکھیے برعکس نام ہند زندگی کا زور۔
 دُم واپس۔ (زن)۔ (۱) نزع کا وقت۔ آخری وقت۔
 دُم پائنتا۔ (۱) محاورہ) دُم پڑھنا۔
 دُم چوہا ہونا۔ (۱) محاورہ) (۱) جان نکلنا (۲) ڈرنا۔
 دُم ہونا۔ (۱) محاورہ) (۱) ہمت ہونا (۲) دُم بخت ہونا۔ چاؤلوں کا پکنا۔
 دُم ہونٹوں پیرانا۔ (۱) محاورہ) نزع کا عالم ہونا۔
 دُم ہی دُم میں رکھنا۔ (۱) محاورہ) ٹال مٹول کرنا۔ جیلے حوالے بتانا۔ دھوکے میں رکھنا۔
 دُم سے تو کیا علم ہے۔ (۱) محاورہ) زندگی ہے تو کوئی پروا نہیں۔
 دُم۔ (زن)۔ (۱) نزع۔ (۱) خون۔ (۲) جان۔ (۳) روح۔ زندگی۔
 دُم الٰہیوں۔ (۱) دھائیوں کا خون (۲) سرخ رنگ کا ایک گند جو اکثر رنگے اور ددا کے کام آتا ہے۔
 دُم۔ (زن)۔ (۱) سٹ۔ (۲) پونچھ۔ (۳) ڈنبا۔ (۴) پچھلا حصہ (۵) انجام (۶) پیر۔ (۷) سینہ لکیر جو دُم دار ستارے کے پیچھے ہو۔
 دُم بریدہ۔ (زن)۔ (۱) صفت) دُم کٹا ہوا۔
 دُم پر یاؤں رکھنا۔ (۱) محاورہ) تنگ کرنا۔ تکلیف دینا۔ پھیڑنا۔
 دُم چھاڑنا۔ (۱) محاورہ) دُم ہلانا۔
 دُم چنور کرنا۔ (۱) محاورہ) گھوڑے کا دُم اٹھا کر چلنا۔
 دُم چھلا۔ (۱) منہ (۲) وہ لہبا کا غذا جو کنگوسے کے پھلے سر سے پر

لگاتے ہیں (۲) وہ شخص جو کسی کے ساتھ ساتھ رہے (۳) چھوٹی دُم۔ پونچھری۔
 دُم دار۔ (زن)۔ (۱) صفت) پونچھ والا۔
 دُم دار تارا۔ (۱) منہ) وہ تارا جس کے پیچھے روشن لکیر ہے۔
 دُم ڈبا کر بھاگنا۔ (۱) محاورہ) ڈر کر بھاگ جانا۔
 دُم دبانا۔ (۱) محاورہ) (۱) بھاگنا (۲) مطلوب ہونا۔
 دُم ریز۔ آخر موسم پر یا دوسری بار پھل دینے والا درخت۔
 دُم ستم سے اچھا ہے۔ (۱) مقولہ) (۱) موٹا تازہ ہے۔ نر بہر ہے۔ اسی حالت میں ہے۔
 دُم علم کرنا۔ (۱) منہ) (۱) باقی کا بھاگتے ہوئے دُم اُدبنا کرنا (۲) پھوٹے کا ڈانک کو اُدبنا کرنا۔
 دُم کٹا بھینسا۔ (۱) صفت) فزہ اور سیاہ نام آدمی۔
 دُم کے پیچھے پھرنا۔ (۱) محاورہ) ساتھ ساتھ لگا پھرنا۔ پیچھے پیچھے پھرنا۔
 دُم گرا۔ (۱) منہ) (۱) وہ جگہ جہاں سے دُم نکلی ہو (۲) کپڑے یا کاغذ کی دھجی جو چھوٹی کنکیتا میں لگاتے ہیں (۳) کنکیتہ) جو ہر وقت ساتھ رہے۔
 دُم لگ گئی۔ (۱) محاورہ) نئی بات پیدا ہو گئی۔
 دُم میں گھٹنا۔ (۱) محاورہ) (۱) پناہ لینا (۲) خوش آمد میں ہر وقت ساتھ رہنا (۳) پنے کا ماں کے پیچھے رہنا۔
 دُم میں مذا بانڈھنا۔ (۱) محاورہ) مٹھنڈا اڑانا۔ مذاق اڑانا۔
 دُم ہلانا۔ (۱) محاورہ) دُم کو حرکت دینا (۲) خوش آمد کرنا۔ چاؤلوں کرنا۔
 دُم و دُم۔ (زن)۔ (۱) [زن] پے در پے۔ متواتر۔
 دُم باغ۔ (۱) باغ (۲) نزع۔ (۱) منہ) (۱) سر کا گودا۔ بھینسا۔ مغز (۲) عقل۔
 دُم۔ (۱) دانائی (۲) برداشت۔ تاب۔ طاقت (۳) اوسان۔ ہوش حواس (۴) مزور۔ تکتہ۔ گھنڈ۔
 دُم باغ آسمان پر ہونا۔ (۱) محاورہ) مغز ہونا۔ خود پسند ہونا۔
 دُم باغ اٹھانا۔ (۱) محاورہ) ناز اٹھانا۔
 دُم باغ اٹھنا۔ (۱) محاورہ) ناز برداری ہونا۔
 دُم باغ اور ہونا۔ (۱) محاورہ) عزت ہونا۔
 دُم باغ بڑھنا۔ (۱) محاورہ) (۱) زیادہ مغز ہونا (۲) نازک دُم باغ ہونا۔
 دُم باغ بہکنا۔ (۱) محاورہ) پاگل ہو جانا۔
 دُم باغ بھونک بھونک کے خالی کرنا۔ (۱) محاورہ) بک بک کر کے تھک جانا یا دوسرے کو تھکا دینا۔
 دُم باغ پریشان کرنا۔ (۱) محاورہ) بک بک کر کے یا شوہا کرتنگ کرنا۔ (۲) حواس ہنڈ کرنا۔
 دُم باغ پھرنا۔ (۱) محاورہ) (۱) دُم باغ پریشان ہونا (۲) سڑی ہونا۔ باؤلا ہونا۔
 دُم باغ تر ہونا۔ (۱) محاورہ) دُم باغ کو تازگی اور آرام پہنچانا۔
 دُم باغ تیز ہونا۔ (۱) محاورہ) دُم باغی قوت زیادہ ہونا۔
 دُم باغ جھڑنا۔ (۱) محاورہ) عزت دور ہونا۔ گھنڈ ٹھنڈا۔

راحت ہونا۔

دن بھرنا۔ (۱- محاورہ) بڑے اور خوش دنوں کو دکرنا۔

دن گزیرنا۔ (۱- محاورہ) حشر گذرانا۔ مہول کے دن گذیرنا۔

دن جاتے در نہیں لگتی۔ (دش) وقت جلد گزرتا ہے۔

دن پڑھانا۔ (۱- محاورہ) دیکرنا۔ دھوپ پڑھانا۔ صبح کا وقت گزارنا۔

دن چڑھے۔ سورج نکلنے پر۔ آفتاب کے بلند ہوجانے پر۔

دن چھیننا۔ (۱- محاورہ) سورج ڈوبنا۔ شام ہونا۔

دن دکھانا۔ (۱- محاورہ) خوشی کا موقع نصیب کرنا۔

دن دکھلوانا۔ (۱- محاورہ) بخوشی سے راحت معلوم کرنا۔

دن ڈونڈا رات چوگنا۔ (۱- محاورہ) زیادہ سے زیادہ۔ بہت زیادہ۔

دن دلاڑے۔ (۱) دن میں سب کے سامنے۔ کھلے بندوں۔ علانیہ۔

دن دیکھانہ رات۔ (۱- محاورہ) روزمرہ) وقت بے وقت کا خیال نہ کرنا۔

دن دھلنا۔ سورج کا زوال شروع ہوجانا۔ دن گھٹنا۔

دن ڈھلے۔ (۱) دوپہر کے بعد۔

دن رات۔ (۱) شب دروز۔ چوپیس گھنٹے۔ ہر وقت۔

دن رات کا بکھیرا۔ (۱) اشل) ہر وقت کا بکھیرا

دن رہے۔ (۱) شام سے کچھ پہلے۔

دن سن۔ سن دسال۔

دن سدھارنا۔ (۱- محاورہ) زمانہ چلا جانا۔

دن سے۔ (۱) دن پھینے سے پہلے۔ سر شام۔

دن سیدھے ہونا۔ (۱- محاورہ) فارغ ابالی ہونا۔ بھلے دن آنا۔

دن صاف گذیرنا۔ (۱- محاورہ) کھانے کو کچھ نہ ملنا۔ ناقہ ہونا۔

دن بعد رات شب برات۔ (۱) اشل) رات دن عیش و نشاط۔

دن قرار پانا۔ (۱- محاورہ) کسی کام کے لیے دن مقرر ہونا۔ دن ٹھہرنا۔

دن کاٹنا۔ (۱- محاورہ) مصیبت سے بستر کرنا۔

دن گھٹنا۔ (۱- محاورہ) وقت گزرنا۔

دن گڑا ہونا۔ (۱- محاورہ) مصیبت کا زبانا ہونا۔

دن کو آونی آونی رات کو پڑھ لوئی۔ بے موقع کام کرنے کی نسبت کہتے ہیں۔

دن کوتارے دکھانا۔ صدرہ دماغی پہنچانا جس سے سر پیکا جائے (۱)

خوب مارنا۔

دن کوتارے نظر آنا۔ (۱) بہت تیز نظر ہونا (۲) سخت تار کی ہوجانا۔

دن کو دن رات کو رات نہ جاننا۔ (۱- محاورہ) کسی کام میں بہت مشغول ہونا۔ دن رات کام کرتا۔

دن کو رات کہنا۔ (۱- محاورہ) اٹنی بات کہنا۔

دن کی پوچی رات کی کہی۔ (۱- اشل) جب کوئی بے تکی بات بجاہ میں کہے تو اس وقت کہتے ہیں۔

دن کے دن۔ (۱) اسی دن۔ جلدی۔

دن گھٹنا۔ (۱- محاورہ) انکسار کرنا۔

دن گھنونا۔ (۱- محاورہ) وقت ضائع کرنا۔ عمر برباد کرنا۔

دبیرا ہوجانا (۴) اگنا دیمدن سے

دیمہنا۔ (د-م-نہ) (۱) مذ- دومنہ کا۔ دومنہ والا سانپ۔

دیموئی۔ (د-م-وی) (۱) صفت) خونی خون کا۔ منسوب بہ خون۔

دیموی مزاج۔ (۱) صفت) وہ شخص جس میں خون کی فطرت بڑھ جائے۔

دیمہ۔ (د-م-ف) (۱) مذ) (۱) دھوگنی۔ دھوگنی کا جوڑا (۲) سانس کا روگ۔

عینق النفس۔ وہ بیماری جس میں سانس رگ رگ کر آئے۔

دیمہ دم کے ساتھ۔ (۱) مثل) دیمہ کا مرض مرتے دم تک نہیں جاتا۔

دیمی۔ (د-م-ی) (۱) صفت) چھوٹی سی گڑاگلی۔ ایک قسم کا چھوٹا مٹھ۔

دیمیتا۔ (د-م-ت) (۱) صفت) مال دار۔ امیر۔

دیمیدی۔ (د-م-ی) (۱) صفت) (۱) ہوا کا چلنا۔ پھولوں کا کھلنا

پاروں کا پھوٹنا۔ شاخوں کا نکلنا۔ خوشبوؤں کا پھیلنا (۲) غارش۔

ہما سے۔ کوئی چیز جو بدن پر چھوٹے۔

دیمیدہ۔ (د-م-ی) (۱) صفت) کھلا ہوا۔ پھوٹا ہوا۔ چھوٹے والا

کھلنے والا۔

د-ن

دن۔ (۱-۱-۱) صفت) پشانہ۔ بندوق یا توپ کی آواز۔

دن سے۔ (۱) متعلق فعل) تڑاق سے۔ زندگی آواز کے ساتھ۔

دن۔ (۱-۱-۱) (۱) مذ) (۱) سورج کے نکلنے سے غروب ہونے کا عرصہ (۲) روز۔

(۳) روشنی کا وقت (۴) صبح۔ تڑا کا (۵) زمانہ۔ دور۔ وقت۔

(۶) ساعت۔ گھڑی (۷) موسم۔ رُت (۸) واقعات (۹)

بجنت۔ نصیب۔

دن آنا۔ (۱- محاورہ) (۱) رُت آنا (۲) موت کا وقت آنا (۳) جین آنا۔

(۴) شامت آنا۔ بڑے دن آنا۔

دن بدن۔ روز بروز۔ ہر روز۔ رفتہ رفتہ۔ شدہ شدہ۔

دن بدنا۔ (۱- محاورہ) تالیخ مقرر کرنا۔

دن بھاری (ہونا) رہنا۔ (۱- محاورہ) سختی کے دن آنا۔ تنگ دستی ہونا۔

دن بھر۔ تمام دن۔ تمام روز۔

دن بھرنا۔ (۱- محاورہ) مصیبت کے دن پورے کرنا۔ مصیبت میں

دوسر کرنا۔

دن بھرنا۔ (۱- محاورہ) اچھے دن آنا۔ قیمت کھلنا۔

دن بڑا ہے۔ (۱- محاورہ) ابھی بہت وقت باقی ہے۔

دن پڑنا۔ (۱- محاورہ) (۱) مصیبت آنا۔ بڑا وقت آنا (۲) رائڈ ہونا۔

بیوہ ہونا۔

دن پورے کرنا۔ (۱- محاورہ) مصیبت کے دن کاٹنا۔ زندگی جوں

قوت بسر کرنا۔

دن ہٹا ہوجانا۔ (۱- محاورہ) دن کاٹنا دشوار ہوجانا۔

دن پڑنا۔ (۱- محاورہ) اچھے دن آنا۔ خوش حال ہونا۔ مصیبت کے بعد

دُنیا کے دُنی - (ع-ن-ا-مٹ) کینی دُنیا -
 دُنیاوی - (دُن-یا-وی) (ع-صفت) دُنیا کا - دُنیا سے نسبت
 رکھنے والا -
 دُنیوی - (دُن-ئی-وی) (ع-صفت) دُنی کا فیض - دُنیا سے
 منسوب - دُنیا کا -

د-و

دو - (ن-صفت) (۱) ایک اور ایک کا مجموعہ (۲) جوڑا - جفت (۳) الگ - جُدا
 خیز (۴) چند -
 دوایب - دو آبہ - (ن-ا-مذ) زمین جو دو دریاؤں کے درمیان ہو -
 دو آتشہ - (ن-صفت) (۱) وہ عرق یا شراب جو دو دفعہ آگ پر لکھ کر کشید
 کی جائے (۲) تیز تند -
 دو آتشہ پلانا - (مجاورہ) اشتعال دینا -
 دو آشیانہ - ایک تم کا خیمہ جس میں دو کمرے ہوتے ہیں -
 دو آتسو گرانٹا - (۱) مجاورہ ہتھوڑا سارونا -
 دو اسیبہ - (ن-صفت) (۱) دو دھوکوں کے جوت کی سواری (۲) دو گھوڑوں
 کی ڈاک (۳) جلد - فورا -
 دو اک - دو ایک - (۱) صفت چند ہتھوڑے - دو تین -
 دو انگلی کی بچی - (۱) مٹھی چھوٹی سی لڑکی -
 دو انگلیاں مانتے پر رکھنا - (۱) مجاورہ لا پرہادی سے سلام کرنا -
 دو بادشاہ درائیلیے نہ کھنڈ (ن-مٹ) ایک ملک میں دو بادشاہ
 وہ درویش در گھنے کھنڈ ہوں تو ان میں ہمیشہ لڑائی جھگڑا
 رہتا ہے مگر دس فقیر ایک گڈڑی میں سو جاتے ہیں -
 دو ہاتوں میں - (۱) چند فقروں میں -
 دو ہار - (۱) دو دفعہ -

دو بارہ - (ن-صفت) دوسری مرتبہ یا دوسری دفعہ - کترہ -
 دو باز - (ن-ا-مذ) (۱) انگلیاں جس کے دو گنڈے رنگ دار ہوں (۲) ایک
 قسم کا باز (۳) دو رنگے بازو کا کبوتر -
 دو بالہ - (ن-صفت) دگن - دو چند - دونا -
 دو بزر - دو برابر - (ن-صفت) دو پاٹ کا -
 دو بکدرا - (۱) مذ - دو بیوں کا چکر لڑا -
 دو بول پڑھانا - (۱) مجاورہ نکاح پڑھانا - لڑکی کا عزیز بیو جب
 نکاح کر دینا -
 دو بھیل یا دو بھیسیا - (۱) صفت (۱) دو رنگی (۲) منافق -
 دو بھیلی بات - (۱) مٹھی پہلو دار بات -
 دو پتی - (۱) صفت رُبا می -
 دو پائی - (۱) مٹھی دو عرض کا - دو پاٹ کا -
 دو پارہ - (ن-صفت) دو ٹکڑے - ٹکڑے ٹکڑے - چٹا ہوا -

دُنیا ادھر کی ادھر ہو جانا - (۱) مجاورہ انقلاب عظیم ہونا -
 دُنیا اندھیر ہو جانا - (۱) مجاورہ غم کے باعث کچھ نہ سوجھنا بہت جھلجھل ہونا
 دُنیا بے امید قائم - (مٹ) انسان امید کے سبب زندگی بسر کرتا ہے -
 دُنیا بھر کی خاک چھانٹنا - (۱) مجاورہ بہت تلاش و جستجو کرنا -
 دُنیا بھر کے - (۱) بہت سے - بہت کمال - بے انتہا -
 دُنیا بھر کے چین - (۱) مذ - ہر قسم کی تدبیریں -
 دُنیا پرست - (ن-صفت) دُنیا دار - لالچی -
 دُنیا پر لات مارنا - (۱) مجاورہ دنیا کو ترک کر دینا - گوشہ نشین ہو جانا -
 دُنیا جہاں - (ن-ا-مذ) تمام عالم -
 دُنیا چھانٹنا - (۱) مجاورہ بہت تلاش کرنا -
 دُنیا چھوڑنا - (۱) مجاورہ فقیر ہو جانا - گوشہ نشینی اختیار کرنا -
 دُنیا دار - (ن-صفت) (۱) دُنیا کے دھندوں میں پھنسا ہوا آدمی (۲) ظاہری
 افلاک کا آدمی - طسار آدمی (۳) چالاک آدمی - امیر آدمی -
 دُنیا داری - (ن-ا-مٹ) (۱) دُنیا کے دھندے - تعلقات (۲) کلبہ -
 بال بچہ - رشتہ داریاں (۳) خانہ داری (۴) طساری - میل جول -
 دُنیا دیکھنا - (۱) مجاورہ تجربہ کار ہونا -
 دُنیا ساز - (ن-صفت) ظاہر داری کرنے والا - دُنیا دار -
 دُنیا سازی - (ن-ا-مٹ) ظاہر داری کی باتیں - بناوٹ - نمائش -
 دُنیا سازی کی باتیں - (۱) مجاورہ ظاہر داری کی باتیں -
 دُنیا سے اٹھ جانا - (۱) مجاورہ سدھارنا - کوچ کرنا - مرجانا -
 دُنیا سے اڑ جانا - (۱) مجاورہ معدوم ہونا - غائب ہونا -
 دُنیا سے الگ ہونا - (۱) مجاورہ سب سے بے تعلق ہونا -
 دُنیا سے دل اٹھانا - (۱) مجاورہ دُنیا چھوڑ دینا -
 دُنیا سے روانہ ہونا - (۱) مجاورہ مرجانا -
 دُنیا سے ہاتھ دھونا - (۱) مجاورہ دُنیاوی معاملات سے دست بردار ہونا
 دُنیا عرض کی ہے - (۱) مقولہ مطلب نکل جانے کے بعد کوئی کسی کو
 نہیں پوچھتا -
 دُنیا کا ابھی کیا دیکھا - (۱) مجاورہ کم عمر سے - نا تجربہ کار ہے -
 دُنیا کا کتا - (۱) مجاورہ طالب دُنیا - لالچی - ذلیل - دُنیاوی فائدوں کو
 فاقیت پر ترجیح دینے والا -
 دُنیا کا کہنا - (مٹ) سب لوگوں کا کہنا -
 دُنیا کا ابو سفید ہونا - (۱) مجاورہ لوگوں میں محبت نہ رہنا -
 دُنیا کی ٹھوکر میں کھانا - (۱) مجاورہ مارا مارا پھرنانا -
 دُنیا کی ہوا کھانا - (۱) مجاورہ مزے اُڑانا -
 دُنیا کی ہوا لگنا - (۱) مجاورہ دُنیا کا اثر ہونا - دُنیا کا مزہ پڑنا -
 دُنیا کے عیب - (۱) مذ - ہر قسم کی بُری باتیں -
 دُنیا میں نام کر جانا - (۱) مجاورہ کوئی بڑا کام کر کے ابھی شہرت حاصل کرنا
 دُنیا و ما فیہا - (ع-ا-مٹ) دنیا اور جو کچھ اس میں ہے -
 دُنیا و ما فیہا کی خبر نہ ہونا - (۱) مجاورہ کسی چیز کا ہوش نہ ہونا -
 دُنیا کے بے ثبات - (ع-ا-صفت) یہ عالم جو فانی ہے -

دو ٹوک ہونا۔ (۱) فیصلہ ہونا (۲) رشتہ یا دوستی ٹوٹنا۔

دو جہاں۔ (ف۔ ہ) دنیا اور آخرت۔

دو جہاں سے جانا۔ (۱) محاورہ) دین و دنیا سے جانا۔ دین و دنیا برباد ہو جانا۔

دو جہاں سے کھونا۔ (۱) محاورہ) کسی کام کا نہ کھنا بیکار کر دینا۔

دو چلیبھا۔ (ف۔ ہ) صفت) (۱) دو زبانوں والا (۲) برہمہ۔ مناقب۔

دو چور و کا حکم چوسر کا پانسا۔ (۱) مثل) دو بیروں والا حدیث تکلیف میں رہتا ہے۔

دو جیا۔ (عاطل عورت)۔

دو چار۔ (ف۔ ہ) صفت) (۱) چند۔ دو ایک۔ دو تین (۲) آمنے سامنے۔ ملائی۔

دو چار گھڑی رات رہے۔ (۱) محاورہ) سہی کے وقت۔

دو چار ہاتھ رہ جانا۔ (۱) محاورہ) تھوڑا سا فاصلہ رہ جانا۔ تھوڑی سی کسر رہ جانا۔

دو چار ہونا۔ (۱) محاورہ) ملاقات ہونا۔ سامنا ہونا (۲) آنکھیں ملنا۔

دو چخت۔ (دو چتا۔ (۱) صفت) (۱) خیالات کی یکسوئی نہ رکھنے والا سر تذبذب پریشان مضطرب۔

دو چھی۔ (ف۔ ہ) صفت) (۱) وہ تصویر جس میں پورے چہرے کا عکس ہوتا ہے (۲) لائے ہوز۔ مخلوط (ھ)

دو چلو۔ (منہ۔ ہ) صفت) تھوڑا سا۔ ذرا سا۔

دو چلو میں (اٹو ہونا) بہک جانا۔ (۱) محاورہ) تھوڑی سی شراب پی کر بہک جانا۔

دو چھتا۔ (ف۔ ہ) صفت) دو دلا۔ پریشان (ق)

دو چنڈ۔ (ف۔ ہ) صفت) دگن۔ ڈونڈ۔ دوہرا۔

دو چوبہ۔ (ف۔ ہ) صفت) (۱) دو چوب والا (۲) ایسا نیمہ جس میں دو ڈنڈے ہوں۔

دو چھتا۔ (۱) مذ) وہ مکان جس کی اوپر تلے دو چھتیں ہوں۔

دو حرف۔ (ف۔ ہ) صفت) مختصر تھوڑا سا۔

دو حرف چھینا۔ (۱) محاورہ) لعنت بھیجا۔ نفرین بھیجا۔

دو حرفی۔ (ف۔ ہ) صفت) بہت مختصر۔

دو حسی۔ (۱) محاورہ) جس نے دوسرا بیاہ کیا ہو۔ دو خاوند والی۔

دو دائرہ۔ (ف۔ ہ) صفت) (۱) ایک قسم کا نیل (۲) ایک سیل دار کپڑا۔

دو دانے کو محتاج ہونا۔ (۱) محاورہ) سخت محتاج ہونا۔

دو دستہ۔ (ف۔ ہ) صفت) دونوں طرف۔

دو دستہ خلال۔ (ف۔ ہ) صفت) (۱) وہ بازی جس میں دو آدمیوں کو ایک ساتھ شکست دی جائے۔

دو دستی۔ (ف۔ ہ) صفت) (۱) کسی کا ایک بیج (۲) دو لٹھ کا توار کا دار۔

دو دل راضی تو کیا کرے کا قاضی۔ (۱) مثل) فریقین کی رضامندی میں حاکم دخل نہیں دے سکتا۔

دو دل ملنا۔ (۱) محاورہ) دو شخصوں کا اتحاد۔ دو طرفہ محبت ہونا۔

دو پاڑا۔ کام کرتے ہوئے لہنگا ٹانگوں کو لپیٹ لینا۔

دو پٹائے پر چڑھانا۔ (۱) محاورہ) (۱) ڈاڑھی چڑھالینا (۲) ہندو کے دونوں گھوڑے انتہائی سہر پر چڑھالینا۔

دو پائے کا تعویذ۔ دو پائے کا نقش۔ (۱) مذ) ایک قسم کا نقش مشق دو پٹا۔ (۱) مذ) (۱) دو پاٹ کا چادر (۲) عورتوں کی اوڑھنی (۳) وہ چادر جو مرد کو پہنی جانتے ہیں۔

دو پٹا اٹھانا۔ (۱) محاورہ) عورتوں کا کونے یا دُعا دینے کے لیے دونوں ہاتھوں سے دوپٹے کو اُٹھانے کرنا۔

دو پٹا بدلنا۔ (۱) محاورہ) مینا پاکرنا۔

دو پٹا تان کے سوننا۔ (۱) محاورہ) بے فکری سے سوننا۔

دو پٹا ڈھلنا۔ ڈھلکانا۔ (۱) محاورہ) دوپٹے کا سینے سے ہرک جانا۔

دو پٹا گردن میں ڈالنا۔ (۱) محاورہ) پکڑ لینا۔ گرفتار کر لینا۔

دو پٹا ہلانا۔ (۱) محاورہ) مینا مانگنا۔ ڈرامنا۔ صلح کا خواہاں ہونا۔

دو پٹیا۔ (۱) مذ) (۱) کبوتر جس کا پیٹ سفید ہو (۲) ایک قسم کا پتنگ جس میں دو رنگ کی پٹیاں ہوں (۳) دو پٹیا کی تصویر۔ اوڑھنی۔ چٹری۔

دو پترتا۔ (ف۔ ہ) صفت) دوہرا۔ دو تہہ کا۔

دو پترتہ۔ (ف۔ ہ) صفت) دونوں طرف چھپا ہوا (۲) دو رخ۔ دو طرفہ۔

دو پترتہ کرنا۔ (۱) محاورہ) (۱) کاغذ کو ایک طرف چھاپ کر دوسری طرف چھاپنا۔ دو رخ بنانا۔

دو پٹری۔ (۱) صفت) دو پٹروں کی چھوٹی ٹولی۔

دو پٹلا۔ (۱) مذ) (۱) ایک قسم کا کبوتر (۲) ایک قسم کا پتنگ (۳) ایک قسم کا ٹیگنہ۔

دو پتھی۔ (۱) صفت) ایک قسم کی جالی جس کا دوہرا خانہ ہوتا ہے۔ اس کی کڑتیاں بنتی ہیں۔

دو پتر (۱) صفت) (۱) بارہ بجے دن کا وقت، جب سورج عین سر پر ہو۔ (۲) ایک پہر کا دوگنا۔

دو پتر آنا۔ (۱) محاورہ) سورج کا عین سر پر ہونا۔ نصف دن کا گذر جانا۔

دو پتر بچنا۔ (۱) محاورہ) (۱) دن کے بارہ بجنا (۲) دو پہر کا گھنٹہ بچنا۔

دو پتر ڈھلنا۔ (۱) محاورہ) (۱) زوال کا وقت ہونا (۲) دن ڈھلنا۔

دو پتر کی جیل۔ (۱) محاورہ) دو پہر کو مارا مارا پھرے۔

دو پتر ہیا۔ (۱) صفت) (۱) ایک پھول جو اکثر دو پہر کو کھلتا ہے (۲) پچھو جو دن کے بارہ بجے پیدا ہو (۳) دو پہر کا وقت۔

دو پیازہ۔ (۱) صفت) (۱) سان جس میں دو دفعہ پیاز ڈالتے ہیں اور ترکاری نہیں ڈالتے۔

دو تبا۔ (ف۔ ہ) صفت) (۱) دگنا۔ دُہرا (۲) ڈیرھا (۳) گھبرا۔

دو تارا۔ (۱) مذ) ایک قسم کی چھوٹی سی سازنگی جس میں دو تار ہوتے ہیں۔

دو تہی۔ (۱) صفت) (۱) وہ مٹکا پٹرا جو بستہ کی بجائے دہرا بچھا جاتا ہے۔

دو ٹوک۔ (۱) صفت) (۱) دو پارہ۔ دو گھڑے (۲) صاف۔ گھرا (۳) فیصلہ

دو ٹوک جواب دینا۔ (۱) محاورہ) (۱) صاف انکار کرنا۔ صاف جواب دینا (۲) مختصر جواب دینا۔

دو سالہ - (ف - صفت) (۱) دو سال کی عمر کا (۲) وہ زمین جو دو سال برتی گئی ہو (۳) وہ غالب علم جو پیش ہو کر دوسرے سال پھر اسی درجہ میں بڑھ رہا ہو۔

دو سخمٹہ - (ف - ۱) مذ ایسے مصرعے (سختے) جن کا جواب ایک ہو۔
ایسرخر کی ایجاد ہے جیسے دو دم کیوں نہ گایا گوشت کیوں نہ کھایا جواب گلا نہ تھا۔

دوسرا - (ف - ۱) مذ دونوں جہان۔

دوسری - (۱) صفت) وہ زمین جس میں دو مرتبہ بل چلا یا گیا ہو۔

دوسر ملو اوینا - (۱) محاورہ) نکاح کر دینا (۲) صلح کر دینا۔

دوسوٹی - (۱) صفت) دوست کا بنا ہوا کپڑا۔ ایک قسم کا موٹا کپڑا جو فرشوں جنموں وغیرہ کے بنانے میں کام آتا ہے۔

دوسے تین بھلے - (۱) مثل) مشورے کے لیے جتنے آدمی زیادہ ہوں بچتے ہوتے ہیں۔

دوسیرا (دوسیری) - (۱) دوسیر کا باٹ (۲) روئے کا دوسیر والا۔

دوشاخہ - (ف - صفت) (۱) دوشاخ والا (۲) دوشاخوں کی بکڑی (۳) دو شاخوں کا درخت (۴) دوشاخوں کا شیخ دان (۵) دوشاخوں کی مشعل۔

(۶) جنگ چھانسنے کی بکڑی جس کی دوشاخیں ہوتی ہیں۔

دوشالہ - (ف - ۱) مذ) شیشیے کی دوہری چادر۔

دوشالے میں لپیٹ کر (لگانا) مارنا - (۱) محاورہ) بھولنے کا۔ دہرہ ذلیل کرنا۔

دوشنبہ - (ف - ۱) مذ) پیر کا دن - سوموار۔

دو طرفہ - (ف - ۱) صفت) دورویہ - دونوں طرف - دونوں جانب۔

دو عالم طرف - (ع - ۱) مذ) دونوں جہان۔

دو عالم لٹ جانا - (۱) محاورہ) سنت تباہی ہونا۔ قیامت آجانا۔

دو عالم سے گزر جانا - (۱) محاورہ) دنیا اور جتنے کی پروا نہ کرنا۔

دو عالم فراموش ہو جانا - (۱) محاورہ) محبت میں سب کچھ بھول جانا۔
دین دُنیا کا ہوش نہ رہنا۔

دو عملہ - (ف - ۱) مذ) وہ چیز یا مکان جو دو آدمیوں کی ملکیت ہو۔ دو شخصوں کی حکومت۔

دو عملی - (ف - ۱) صفت) (۱) دو شخصوں کی حکومت (۲) بدانتظامی (۳) اختلاف رائے۔

دو سزائے - (ع - ۱) مذ) ایک بحر اور ایک ہی روایت و قافیہ کی دو سزائیں۔

دو غلہ - (۱) صفت) دو نسل کا جس کے مال باپ کی نسل الگ الگ ہو (۲) بکینہ - بد اصل - بد ذات۔

دو چوڑے - (۱) مذ) ایک پیمانہ جس سے دو فطیمک ناپا جاتا ہے۔

دو فصلہ - (ف - ۱) صفت) (۱) یکسوئی نہ رکھنے والا - دورنگا (۲) وہ درخت جس میں سال میں دو بار پھل لگے۔

دو فصلی - (ف - ۱) صفت) (۱) وہ زمین جو سال میں دو بار بونی جائے۔

(۲) دو فصلہ (۳) گول مول - دو پہلو کی۔

دو فصلی بائیں - (۱) صفت) ایسی بائیں جن کے دو طلب ہوں - ظاہر کچھ اور

دو دلا - (ف - صفت) (۱) مثل) (۲) مذ) متکثر - حیران (۳) متذبذب - دو دن - (ف - ۱) مذ) تلیل مصرعہ جھوٹا سا زمانہ۔

دو دن بہار دس دن پت جھڑ - (مثل) پیش کم تکلیف زیادہ۔

دو دن کا بھجان - (ف - صفت) (۱) عارضی - فانی - ناپائیدار (۲) مرنے کے قریب۔

دو دن کی بات ہے - (ف - ۱) صفت) چند روز کا معاملہ ہے۔

دو دن کی جان دنی - (ف - ۱) صفت) (۱) صحت) چند روزہ (۲) عارضی خوبی۔
دو دن (بہی) میں - (۱) تھوڑی سی مدت میں۔

دو دن یہ بیکرنا - (۱) محاورہ) جلد مر جانا - جوان مر جانا۔

دو دو پائیں - (۱) صفت) مختصر سوال و جواب - چند باتیں۔

دو دو لاکھ اچھلنا - (۱) محاورہ) سخت مضطرب ہونا۔ بہت بے تاب ہونا۔
کلیجے کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔

دو دو لاکھ کرنا - (۱) محاورہ) (۱) لڑائی کرنا (۲) آزمائش کے لیے تھوڑی سی لڑائی کرنا۔

دو دھارا - (۱) صفت) (۱) تین دو دم - دہری دھار کی (۲) وہ جگہ جہاں سے دریا کی دو شاخیں ہوں (۳) ایک قسم کا تھوہر جس کی دہری شاخیں ہوتی ہیں۔

دو دھاری تلوار - (۱) صفت) (۱) صحت) دو سیدی تلوار جس کے دونوں طرف باڑ ہو۔
دو راہ - (۱) مذ) وہ جگہ جہاں دو راستے ملیں یا نکلیں۔

دو رُخا - (۱) صفت) (۱) دورویہ (۲) دو پہلو والا (۳) منافق - دورنگا۔

دو رُخی - (۱) صفت) (۱) تصویر جس میں دونوں رُخ نظر آئیں (۲) ایک قسم کی کمان (۳) منافقانہ۔

دو رسا - (۱) مذ) (۱) دو قسم کا لاکھ ہوتا تھا کہ (۲) غیر دو تہا کہ۔

دو رنگا - (۱) صفت) (۱) دو غلہ آدمی (۲) دو نسل کا مرغ (۳) دو نسل کا گھوڑا۔

دو رنگا - (ف - صفت) (۱) دورنگ کا (۲) ابلق (۳) منافق (۴) تلون مزاج۔

دو رنگی - (ف - ۱) صفت) بیگانگی - دوئی - منافرت - منکاری - منافقت۔

دو رو - (ف - صفت) (۱) دورُخ کا (۲) منافق (۳) ایک پھول جس کا ایک رُخ سرخ اور دوسرا زرد ہوتا ہے - گلِ رعنا۔

دو روز - (ف - ۱) مذ) چند روز۔

دو روز کا بھجان - (ف - ۱) مذ) (۱) تھوڑا قیام کرنے والا شخص (۲) فانی۔
دو روزہ - (ف - صفت) مختصر وقت کا - تھوڑی مدت کا۔

دو رویہ - (ف - صفت) (۱) دونوں جانب سے - دونوں طرف سے (۲) منافقانہ۔

دو زانو - (ف) گھٹنوں کے بن۔

دو زانو بیٹھنا - (۱) محاورہ) گھٹنوں کے نل بیٹھنا۔ ادب سے بیٹھنا۔

دو سار ہونا - (۱) محاورہ) تیریا نیزے کا کسی چیز یا بدن کے پار ہونا۔

دو ساھی - دو ساہی - (۱) صفت) دو فصلی - دو زمین جس میں دو فصلیں ہوں - زمین جس کے نیچے سخت مٹی اور اوپر ریت ہو۔

باطن کچھ ہو۔

دو قدم - (ف. ع. مذ.) (۱) تھوڑی دور۔ چند قدم (۲) قریب۔ نزدیک۔

دو قدم آگے ہونا۔ (۱) محاورہ، سبقت لے جانا کسی سے بڑھ جانا۔

دو قدم بڑھ جانا۔ (۱) محاورہ، تھوڑا سا آگے بڑھ جانا۔

دو قدم چلنا۔ (۱) محاورہ، تھوڑی دور چلنا۔

دو قدم کرنا۔ (۱) محاورہ، دو ٹکڑے کرنا۔

دو قوی - (۱) (مٹ) جھوٹ۔ دھوکہ۔ دور بلی بات۔

دو کرنا۔ (۱) محاورہ، کاٹ دینا۔ دیکھنے کرنا۔ دو ٹکڑے کرنا۔

دو کون - (صفت) (۱) دو ٹکڑا (۲) دو ٹوں طرف (۳) ہر طرف۔

دو کوڑی کا۔ (۱) صفت، بے وقت۔ گھٹیا۔ ذلیل۔

دو کوڑی کو نہ پوچھنا۔ (۱) محاورہ، قدر نہ کرنا۔ بائبل خاطر میں نہ لانا۔

دو کوڑی کی آبرو کر دینا۔ (۱) محاورہ، ذلیل کر دینا۔ عزت بگاڑ دینا۔

دو کوڑی کی بات۔ (۱) (مٹ) نہایت گھٹیا بات۔

دو کوڑی کی حیثیت نہ ہونا۔ (۱) محاورہ، سخت منسل ہونا بے وقت ہونا۔

دو کوڑی کی عزت ہو جانا۔ (۱) محاورہ، بے عزتی ہونا۔

دو گاڑا۔ (۱) (مذ) دونوں بندوں۔ وہ بندوں جس میں دو گولیاں بھری

جاتی ہیں۔

دو گاڑا مارنا۔ (۱) محاورہ، ایک ہی فتنہ دو گولیاں بھر کر چلانا۔

دو گا مہ چلنا۔ (۱) محاورہ، گھوڑے کا آہستہ آہستہ چلنا۔

دو گانہ۔ (۱) بڑوں یا ڈبھری چیز (۲) نماز کی دو رکعتیں۔ نماز شکرانہ۔

دو گز زمین۔ (ف. مذ) قبر۔

دو گونہ۔ (ف. صفت) (۱) دو قسم کا (۲) دو طرح کا۔

دو گھروں کا چراغ۔ (۱) (مذ) دو گھروں کی آبادی اور رونق کا باعث۔

دوھیال اور نہیال میں ایک ہی لڑکا۔

دو گھڑی۔ (۱) (مٹ) تھوڑی دور۔

دو گھڑی بچنا۔ (۱) محاورہ، رات کے دو بجے کا گھنٹہ بچنا۔

دو گھڑی دن رہنا۔ (۱) محاورہ، تھوڑا سا دن باقی رہنا۔

دو گھڑی کا ترکا۔ (۱) (مذ) سچ کا ذب۔ پوچھنے سے بے وقت۔

دو گھڑی کی بے حیائی، سارے دن کا اڈھار۔ (۱) (مٹ) انسان ذرا

سی بے مرونی سے بہت سے نقصان سے بچ جاتا ہے۔

دو گیتی۔ (ف. صفت) دو جہاں۔ دنیا اور جہنم۔

دو گیتی۔ (۱) (مٹ) جو پالے خصوصاً گھوڑے یا گدے کا دونوں پہل ٹانگیں

اٹھا کر ماننا۔

دو لئی پھیلنا۔ (۱) (مٹ) تھما لڑنا۔ دو لئی چلانا۔ (۱) محاورہ)

لائیں مارنا۔ لائیں چلانا۔

دو لخت۔ (ف. صفت) دو ٹکڑے۔ دو پارہ۔ بے جوڑ مصرے۔

دو لڑا۔ (۱) دو دھاگوں والا (۲) دو قطاروں والا (۳) دو رنگا۔ لکائی

بھائی کرنے والا (۴) لارجس کی دو لڑیاں ہوں۔

دو مہیٹ۔ (۲) (مٹ) وہ زمین جس میں نمی اور ریت ملی ہوئی ہو۔

دو تلیا میں مرغی حرام۔ (۱) (مٹ) دو دو دیواروں میں کام بگاڑ جانا ہے۔

دو منڈلہ۔ (۲) دو درجے کا مکان۔

دو منہنا۔ (۲) (مٹ) دو منہ۔ دو منہ کا سانپ۔

دو منہ ہنس لینا۔ (۱) محاورہ، ذرا ہنس لینا۔ قدرے ہنسنا۔

دو میں تیسرا آنکھوں میں کھینکا۔ (۱) (مٹ) صحت دو ہی کی جلی تیسرے

کی شرکت تا کو ہوتی ہے۔

دونالی۔ (۱) (صفت) وہ بندوں جس کی دونالیاں ہوں۔

دونالی چھتانا۔ (۱) محاورہ، (۱) بندوں چلانے کے لیے چھاتی پر رکھنا۔

(۲) لڑنے کے لیے تیار ہو جانا۔

دونوالے۔ (۱) (مذ) تھوڑی سی خوراک۔

دونوں۔ (۱) (صفت) ہر دو۔ دو کے دو۔

دونوں آنکھیں برابر ہیں۔ (۱) (مٹ) دونوں فریق میں سے کسی کو ترجیح

نہیں دی جاسکتی۔

دونوں بے برابر ہونا۔ (۱) محاورہ، دونوں ایک جیسے ہونا۔

دونوں ٹانگوں میں سر کر دینا۔ (۱) محاورہ، سزا دینا۔ ٹھیک بنانا۔

دونوں جہاں سے کھونا۔ (۱) محاورہ، ہمیں کا نہ رکھنا۔

دونوں جہاں میں بھلا ہو۔ (۱) محاورہ، دین و دنیا میں بہتری ہو۔

دونوں جہاں میں مرنے کا لا ہو۔ (۱) (مذ) دنیا اور عاقبت میں رسوائی ہو۔

دونوں دین سے گئے یا نڈرے حلوا ملا نہ مانڈرے۔ (۱) (مٹ) جو

بہت لالچ کرے اُسے کچھ بھی نہیں ملتا۔

دونوں طرف۔ (۱) (مٹ) (۱) فریقین کا مذہب۔

دونوں پیٹھے۔ (۱) (مذ) ہر طرح کا مذہب۔

دونوں وقت ملنا۔ (۱) محاورہ، شام ہونا۔ جھٹ پٹا ہونا۔

دونوں لاکھ سے تالی بچنا۔ (۱) (مٹ) ہر دو فریقین کی مرضی سے جھگڑا

یا صلح ہونا۔

دونوں لاکھوں سے پگڑی تھامنا۔ (۱) (مٹ) بہت کوشش سے عزت پانا

دونوں لاکھوں سے سلام کرنا۔ (۱) محاورہ، نہایت تعظیم کرنا (۲)

بیزاری ظاہر کرنا۔

دونوں لاکھوں سے سلام لینا۔ (۱) محاورہ، (۱) عاجزی ظاہر کرنا۔

(۲) پیر پھاڑ کرنا۔

دونوں لاکھوں سے کلیجہ تھام لینا۔ (۱) محاورہ، صبر کرنا۔ بہت ضبط کرنا

دو ڈرنی۔ (۱) (مٹ) (۱) چھوٹی سی کتاب (۲) فرج۔

دو ڈرنی کا سبق پڑھنا۔ (۱) محاورہ، عیاشی کرنا۔ زنا کرنا۔

دو وقتہ وقتی۔ (۱) (صفت) دونوں وقت۔ صبح شام۔

دو لاکھ اٹھلنا۔ (۱) محاورہ، سموت بے تاب ہونا۔ بہت تڑپنا۔

دو لاکھ چلنا۔ (۱) محاورہ، تھوڑی سی لڑائی ہونا۔

دو لاکھ کا کلیجہ ہو جانا۔ (۱) محاورہ، حوصلہ بڑھ جانا۔

دو لاجن۔ (۱) (صفت) وہ عورت جس نے دوسرا مذکر لیا ہو۔

دو لاجن۔ (۱) (صفت) وہ مرد جس نے دوسری شادی کی ہو۔

دو ہتھ لیا دو ہتھ لیا۔ (۱) (مذ) دو لاکھ جو اپنے یا کسی کے سینے یا منہ پر

مارتے جائیں۔

دو ہتی تالی بچنا - (۱) مٹل، دیکھیے دو لاکھ سے تالی بچنا۔
 دو ہسر - (۱) مٹل، (۲) ڈھری چادر۔ دولائی (۲) دریا کی قدیم تہ (۳) وہ اضنی
 جس میں دو ضلیں ہوں۔
 دو ہی دن میں - (۱) عرصہ قلیل میں کم وقت میں۔
 دو آ - (دو آ) (ڑا۔) (ذ) (۱) دو جا۔ دوسرا (۲) تاش کا وہ پتہ جس میں دو
 نشان ہوں۔ (۳) جوڑے کے ایک داؤ کا نام (۴) دو
 کا ہندسہ۔
 دو آ - (ع - مٹل) دارو۔ درمل۔ دو آئی۔ علاج معالجہ۔
 دو آ آنا - (۱) محاورہ) دو یا علاج معلوم کرنا۔
 دو آ نبرہ - (ع - ف - صفت) دو کا اثر قبول کرنے والا۔
 دو آ نشانہ - (ع - ف - ا - مذ) (۱) شفا خانہ (۲) وہ کمرہ یا الماری جس میں
 دو آئیں رکھی جاتی ہیں (۳) ددا کی دکان۔
 دو آ دارو - (دورمن) علاج معالجہ۔ تیمارداری۔
 دو آ راس ہونا - (۱) محاورہ) دوا کا موافق ہونا۔
 دو آ کو نہ ملنا - (۱) محاورہ) کسی چیز کا بالکل دستیاب نہ ہونا۔ ذرا زلنا۔
 دو آ لگانا - دوا کا ضا کرنا۔
 دو آ نکلنا - (۱) محاورہ) تدبیر نکلنا۔ علاج نکلنا۔
 دو آ - (ذ - مذ) (۱) دیا۔ چراغ۔
 دو آت - (ذ - وابت) (ع - ا - مذ) چوپائے۔ حیوان۔ مویشی۔
 دو آ پز - (ذ - واپز) (س - ا - مذ) (۱) وہ بانسہ یا پائے کا پہلو جس پر دو
 نشان بنے ہوں (۲) تیسرا جگ جو آٹھ لاکھ ۶۴ ہزار برس کا
 سمجھا جاتا ہے۔
 دو آت - (ذ - وابت) (ع - ا - مٹل) سیاہی رکھنے کا ظرف۔
 دو آت آشور - (ف - مذ) وہ گڑھی جس سے صوف کو ہلاتے ہیں۔
 دو آت قلم - (ف - ع - مذ) نقد کچھ نہیں۔ صرف ساکھ ہی ہے۔
 دو آشی - (ذ - و آشی) (ذ - ا - مٹل) ہر باکھ کی بارھویں تاریخ۔ بڑھے
 اور گھٹے چاند کی بارھویں رات۔
 دو آدوش - (ذ - و آدوش) (ف - ا - مٹل) دوڑوھوپ۔ پیروی۔
 کوشتش۔ سعی۔ مجاہدہ۔
 دو آر - (ذ - و آر) (ف - صفت) (۱) گردش کرنے والا۔ پھرنے والا (۲)
 بدلنے والا۔
 دو آر - (ذ - و آر) (ذ - و آر) (ذ - ا - مذ) (۱) دروازہ۔ ڈیوڑھی۔ راستہ
 گند (۲) وسیلہ۔ ذریعہ (۳) آستانہ۔ چوکھٹ۔
 دو آزدہ - (ذ - و آزدہ) (ف - صفت) (۱) باہر امام جنہیں اہل تشیع معصوم مانتے ہیں
 (۲) حضرت علی مرتضیٰ (۳) امام حسین (۴) امام علی
 زین العابدین (۵) امام محمد باقر (۶) امام جعفر صادق (۷) امام موسیٰ
 کاظم (۸) امام علی رضا (۹) امام محمد جوادی القاسمی (۱۰) امام علی نقی (۱۱)
 امام حسن عسکری (۱۲) امام محمد مجتہد۔
 دو آزدہ محام - (ف - ا - مذ) اصطلاح موسیقی میں گانے کے پردے

دو بارہ ہوتے ہیں۔
 دو آزدہم - (ف) بارھواں۔ بارھویں۔
 دو آل - (ذ - و آل) (ذ - صفت) (۱) وہ دینے والا۔ دیوار۔
 دو آل نہ ہونا - (۱) محاورہ) نادر ہونا۔ نادرینا۔
 دو آل - (ذ - و آل) (ف - ا - مذ) (۱) تسمہ۔ رکاب کا تسمہ۔ نقارہ۔ بجانے کا تسمہ
 (۲) دھوکا دینا (۳) چگتی ہوئی تلوار (۴) زمرہ۔
 دو آل مارنا - (۱) محاورہ) نقارے پر تسمہ مارنا۔
 دو آلا - (ذ - و آلا) (لا - مذ) دیوالہ۔
 دو آلا پیٹنا - دو آلا پٹنا۔ دو آلا نکل جانا۔ (۱) محاورہ) دیوالیہ ہونا۔
 دو آلا نکال دینا - (۱) محاورہ) (۱) قرض کی ادائیگی کے ناقابل ہو کر دلے
 کی درخواست دے دینا (۲) زیر بار کرنا (۳) دوسرے کا بہت خرچ
 کر دینا۔
 دو آلا نکل جانا - سخت نقصان ہونا۔
 دو آلی - (ذ - و آلی) (ذ - ا - مٹل) ہندوؤں کا ایک ہتوارہ لاکھ کو ہوتا
 ہے جس میں دولت کی دیوی پھی کی پوجا ہوتی ہے اور گھر گھر دیپ
 جلائے جاتے ہیں۔
 دو آلی بھرنہ - (۱) محاورہ) دوالی کی پوجا کرنا اور مٹھائی چڑھانا۔
 دو آلی - (ذ - و آلی) (ذ - ا - مٹل) (۱) چمڑے کا تسمہ۔ پیڑ (۲) پیڑ اس۔ پیٹی۔
 دو آلیا - (ذ - و آلی) (یا - ذ - ا - مذ) (۱) وہ شخص جس کا دو آلا نکل جانے کے
 باعث کاروبار بند ہو گیا ہو (۲) منس۔ تلاش۔
 دو آلیں - (ذ - و آلیں) (ذ - ا - مٹل) آگیا کی کٹوریوں کے نیچے سے نکلتے۔
 دو آم - (ذ - و آم) (ع - ا - مذ) (۱) ہمیشگی۔ مداومت۔
 دو آمی - (ذ - و آمی) (ف - صفت) دائمی۔ ہمیشہ کے لیے۔
 دو آمی بندوبست - (ف - ا - مذ) زمین کی مالگداری کی وہ تفتیش اور اس
 سے متعلقہ استقامت جو ہمیشہ کے لیے ایک ہی دفعہ کر دیئے جائیں۔
 دو آمی پیڑ - (۱) ایسا پیڑ یا اجارہ جو ہمیشہ کے لیے ہو۔
 دو آں - (ذ - و آں) (ف - صفت) (۱) دوڑتا ہوا۔ بھاگتا ہوا (۲) حیران۔
 سرگرداں۔
 دو آئے - (ذ - و آئے) (ذ - ا - مذ) (۱) سودا۔ پاگل۔ مجنون (۲) احمق۔
 بے وقوف۔ دیوانہ۔
 دو آوین - (ذ - و آوین) (ع - ا - مذ) دیوان کی جمع۔ شاعروں کے کلام
 کے مجموعے۔
 دو آئر - (ذ - و آئر) (ع - ا - مذ) دائرہ کی جمع۔ حلقے۔
 دو آوب - (ذ - ا - مٹل) نرم اور عمدہ گھاس۔
 دو آیدو - (ف - ا - مٹل) (۱) آسنے سے۔ بدمقابل۔ ڈوبو۔
 دو آیدو ہونا - (ف - صفت) مقابل ہونا۔ سامنے ہونا۔ دو آرو۔
 دو آبھر - (ذ - و آبھر) (ذ - صفت) (۱) دشوار۔ مشکل (۲) ناگوار (۳)
 بوجھ۔ مشکل۔
 دو آتین - (ذ - ا - مٹل) (۱) کٹنی (۲) دلالہ (۳) رقیبہ (۴) سوکن۔
 دو آتی - (ذ - و آتی) (ذ - ا - مٹل) (۱) قاصدہ (۲) دلالہ۔ کٹنی۔ ناگوار (۳) شرارتی بورت

(۴) چیل خورعت (۵) باز (شکاری پرندہ) ق -
 دُوج - (۵-۱-مٹ) قمری ماہ کی دوسری اور سترھویں تاریخیں۔
 دُوجا - (دُوجا) وہ صفت دوسرا۔ ثانی۔
 دُوخت - (۵-۱-مٹ) سلائی۔ سیون۔
 دُور - (۱-۱-مٹ) (۱) دھواں (۲) دھند۔ بخار (۳) بخارات۔ بھاب۔
 دُودھ پیرا - (۱-۱-مٹ) دینے کی سیاہی۔
 دُودکش - (۱-۱-مٹ) دھواں نکلنے کا سوراخ۔ چینی۔
 دُودمان - (دُودمان) (۱-۱-مٹ) (۱) بڑا قبیلہ۔ خاندان۔ گنبد (۲) نسل۔
 قوم (۳) خوشبو۔

دُودہ - (دُودہ) (۱-۱-مٹ) قوم۔ قبیلہ (۲) گنبد۔ خاندان (۳) چینی (۴)
 بڑا لڑکا (۵) گول چھوٹی (۶) پیرا کی سیاہی۔ کاجل۔
 دُودھ - (۱-۱-مٹ) شیر۔ لبن۔ وہ سفید سیال چیز جو مادہ کے پستانوں سے
 نکلتی ہے (۲) درخت یا پودے کا گڑھا رس۔
 دُودھ اُترنا - (۱-۱-مٹ) دُودھ پیدا ہونا۔ دُودھ کا متن یا پستان میں آجانا۔
 دُودھ اُدھاری - (۱-۱-مٹ) صرف دُودھ پر گزارہ کرنے والا۔ وہ شخص
 جو اناج چھوڑ کر صرف دُودھ پر گزارہ کرے۔

دُودھ اُگلنا - (۱-۱-مٹ) بچوں کا مٹنے سے دُودھ پھینکنا۔
 دُودھ بچا کر - (۱-۱-مٹ) دُودھ کا رشتہ چھوڑ کر۔
 دُودھ بخشنا - (۱-۱-مٹ) دُودھ پلانے کا حق معاف کرنا۔
 دُودھ بڑھانا - (۱-۱-مٹ) بچے کا دُودھ بھرا نا۔
 دُودھ بڑھائی - (۱-۱-مٹ) بچوں کا دُودھ بھرا لے کی رسم۔
 دُودھ بڑھنا - (۱-۱-مٹ) (۱) دُودھ زیادہ ہونا (۲) دُودھ چھوٹنا۔
 دُودھ بھائی - (۱-۱-مٹ) وہ اشخاص جنہوں نے ایک عورت کا دُودھ
 پیا ہو۔ رضاعی بھائی۔ دُودھ شریک۔ کوکا۔
 دُودھ بھرا نا - (۱-۱-مٹ) مانتا ہے چھاتیوں میں دُودھ اُترنا۔ مادری
 محبت کا جوش میں آنا۔

دُودھ بھری کٹوریال - (۱-۱-مٹ) دُودھ کی بھری ہوئی چھاتیاں۔
 دُودھ بہن - (۱-۱-مٹ) وہ لڑکی جس نے کسی بچے کے ساتھ ایک ہی عورت
 کا دُودھ پیا ہو۔ رضاعی بہن۔
 دُودھ بڑنا - (۱-۱-مٹ) (۱) اناج میں رس پیدا ہونا (۲) چمک کے ازل
 میں پیپ بڑنا۔

دُودھ پلانا - (۱-۱-مٹ) بچے کو دُودھ پھینانا۔
 دُودھ پلائی - (۱) دایہ (۲) وہ نقدی جو دُولہا کو دلہن کے گھر سے ساہتی
 کے روز آتی ہے یا دلہن کے رشتہ دار دُولہا کو دیتے ہیں۔

دُودھ پوت - (۱-۱-مٹ) (۱) دھن دولت۔ آل اولاد۔
 دُودھ پوت والی - (۱-۱-مٹ) آل اولاد والی۔ صاحب نصیب۔
 دُودھ پھڑنا - (۱-۱-مٹ) اُبلتے دُودھ میں کھٹی چیز ڈال کر دُودھ سے
 پانی الٹ کر دینا۔
 دُودھ پھینا - (۱-۱-مٹ) (۱) دُودھ کے اجزا الگ الگ ہونا (۲) دُودھ
 کا خراب ہو جانا۔

دُودھ پیتا - (۱-۱-مٹ) (۱) شیر خوار (۲) نختا۔ نادان۔ بے سمجھ۔
 دُودھ پیتے روئے - (۱-۱-مٹ) (۱) روپے مع میاج (۲) سُوڈ کے روپے۔
 دُودھ چھاتا رہنا۔ دُودھ کا تنگ ہو جانا۔
 دُودھ پھراتا - (۱-۱-مٹ) (۱) مٹا رہنے کا دُودھ سے وقت نکلنے میں سے
 دُودھ اُپر کر چھٹانا۔
 دُودھ پڑھنا - (۱-۱-مٹ) (۱) دُودھ تنگ ہونا (۲) چھاتیوں کا دُودھ
 سے تن جانا۔

دُودھ دوہنا - (۱-۱-مٹ) (۱) مٹا رہنے کا دُودھ نکالنا دُودھ کی بھاری
 دُودھ دیا لینکوں بھرا۔ (۱-۱-مٹ) (۱) کام کرنا، مگر خراب طریقے سے۔
 دُودھ ڈالنا۔ بچے کا دُودھ کی تے کرنا۔
 دُودھ سا۔ بنایت سفید۔ دُودھ کی مانند۔

دُودھ کا جلا چھا چھوٹا چھوٹا کر پیتا ہے۔ (۱-۱-مٹ) ایک چیز
 سے ڈرا ہوا اس کی ہم شکل چیز سے بھی ڈرتا ہے۔
 دُودھ کا دُودھ پانی کا پانی۔ (۱-۱-مٹ) (۱) بھوٹ اور سچ الگ الگ۔
 بلدا پورا انصاف۔

دُودھ کا سا اُبال - (۱-۱-مٹ) جلد رنچ ہو جانے والا جوش یا نختہ۔
 دُودھ کی بومٹہ سے آنا۔ (۱-۱-مٹ) (۱) بچہ اور نا تجربہ کار ہونا۔
 دُودھ کی طرح اُچھان آنا۔ (۱-۱-مٹ) (۱) نختے کا سنت جوش تھوڑی دیر
 کے لیے آنا۔

دُودھ کی کھی کی طرح نکال کر پھینک دینا۔ (۱-۱-مٹ) بے دخل
 کر دینا۔ نکال دینا۔ بچے تعلق کر دینا۔
 دُودھ کی مکھی کس نے چھپس۔ (۱-۱-مٹ) (۱) خراب چیز کوئی استعمال نہیں کرنا۔
 دُودھ کے دانت۔ شیر خوار کی کا زمانہ۔
 دُودھ کے دانت نہ ٹوٹنا۔ (۱-۱-مٹ) کم عمر ہونا۔

دُودھ ہال - (۱-۱-مٹ) آنا۔
 دُودھ مہسری۔ (۱-۱-مٹ) ایک قسم کا لٹھی کپڑا۔
 دُودھ ٹیدہ کھانا۔ (۱-۱-مٹ) (۱) عمدہ اور نرم غذا کھانا۔
 دُودھ موت کرنا۔ (۱-۱-مٹ) (۱) بچے کی پرورش اور خدمت کرنا۔
 دُودھ نہ بخشنا۔ (۱-۱-مٹ) (۱) دُودھ کا حق معاف نہ کرنا۔ مال کا اولاد سے
 سخت نالاظ ہونا۔

دُودھوں گلیاں کرو۔ (دُعا) خدا تمہیں اتنی دولت دے کہ پانی کے بجائے
 دُودھ سے گلیاں کرو۔

دُودھوں نہا قوتوں پھلو۔ (کلمہ دعا) ہمیشہ دولت اور اولاد میں
 کھیلتی رہو۔
 دُودھنگ - (۱-۱-مٹ) (۱) چینی۔ دھواں نکلنے کا روزن جو گھروں میں
 بنایا جاتا ہے۔

دُودھی۔ (دُودھی) (۱-۱-مٹ) (۱) دُودھ والی۔ دُودھ دینے والی (۲)
 جس میں دُودھ یا رس ہو (۳) چھاتی۔ پستان یعنی (۴) ایک بوٹی۔
 دُودھیا۔ (دُودھی) (۱-۱-مٹ) (۱) دُودھ سے بھرا ہوا (۲) دُودھ کا
 سارنگ (۳) کچا۔ بزر (۴) ایک قسم کا بھجر۔

دُو دُوہیل - (دو-دھیل) وہ صفت [دو دھ دینے والی۔
دُو دُوہیل گائے کی لائیں بھی بھلی۔ (۱-۱) [ش] جس سے فائدہ ہو۔
 اس کی گڑھی بات بھی بہنی پڑتی ہے۔
دُو دُو - (دو-دو) (۱) چکر گردش (۲) رفتار۔ حال (۳) حاشیہ۔ کنارہ (۴)
 باری۔ ذہبت (۵) مقلد۔ گھیرا (۶) چاروں طرف (۷) شراب کے
 پیالے کی گردش (۸) انقلاب (۹) زمانہ۔ عہد (۱۰) سبق کو بار بار
 دہرانا (۱۱) حافظ کا قرآن شریف حفظ کرنا (۱۲) محیط۔ پھیلاؤ (۱۳)
 رسی کا نل۔ جمع، آدوار۔
دُو رانا - (دو-رانا) (۱) باری آنا (۲) شراب کا پیالہ آنا (۳) وقت آنا۔
دُو ربا بندھنا۔ دُو ربا بندھنا۔ (۱) محاورہ) شراب کا گردش کرنا۔
دُو رچلنا۔ (۱) محاورہ) شراب کا باری باری ہر ایک کے دُو رونا آنا۔
دُو ر دُو ر۔ (۱) مذ (۲) حکومت، سلطنت (۳) رواج۔ طریقہ۔ طور۔
دُو ر کرنا۔ (۱) محاورہ) دو شخصوں کا باری باری سے ایک دوسرے کو
 قرآن کا سبق سنانا۔
دُو ر میں آنا۔ (۱) محاورہ) گردش میں آنا۔
دُو ر۔ (دو-دو) (۱) بید۔ فاصلے پر (۲) علیحدہ۔ الگ۔ جدا۔ پرے
 (۳) دُشوار۔
دُو ر از حال۔ (دو-دو) (۱) اب سے دُو ر۔ خدانہ کرے۔ خدا محفوظ رکھے۔
دُو ر از کار۔ (دو-دو) (۱) مخالفت (۲) مرضی کے خلاف (۳) مطلب
 سے دُو ر۔ بیکار۔
دُو ر آفتادہ۔ (دو-دو) (۱) صفت) جو فاصلے پر واقع ہو۔ بہت دُو ر کے۔ تو جہ ہر
دُو ر اندیش۔ (دو-دو) (۱) صفت) متفکد۔ دانا۔
دُو ر اندیشی۔ (دو-دو) (۱) صفت) متفکدی۔ دانائی۔
دُو ر باد۔ (دو-دو) (۱) خدانہ کرے۔ اب سے دُو ر۔
دُو ر باش۔ (دو-دو) (۱) کلمہ خدا (۲) دُو ر ہو۔ بادشاہوں کے آگے جو بدار۔
 "دُو ر باش! دُو ر باش! پکارا کرتے تھے (۲) ایک دوشا خدیزہ جو
 بادشاہوں کی سواری کے آگے لے کر چلتے تھے (۳) میر کارواں (۴)
 چھڑی لاٹھی۔
دُو ر بھاگنا۔ (دو-دو) (۱) پر تیز کرنا۔ لغزت کرنا۔ لگ رہنا۔ دُو ر رہنا۔
دُو ر بین۔ (۱) دُو ر اندیش۔ بات کو تاڑ جانے والا (۲) اگر جس میں دُو ر
 کی چیز بڑی اور نزدیک نظر آتی ہے۔
دُو ر بینی۔ (دو-دو) (۱) صفت) دُو ر اندیشی۔
دُو ر پار۔ (دو-دو) (۱) خدانہ کرے۔ خدا خواستہ (۲) بھڑا۔ زنانہ۔ زخما۔
دُو ر پہنچنا۔ (دو-دو) (۱) محاورہ) دُو ر جلا جانا (۲) بلند پروازی۔ باریک بات
 خیال میں آنا (۳) درجہ کمال کو پہنچنا۔ دُو ر اندیشی کرنا (۴) حسب
 نسب کو گالی دینا (۵) شہرت ہونا۔
دُو ر پھینکنا۔ (دو-دو) (۱) محاورہ) فاصلے پر پہنچانا (۲) علیحدہ کر دینا بھال دینا
دُو ر تک پہنچنا (جلا جانا)۔ (۱) محاورہ) بزرگوں کو گالی دینا (۲)
 فاصلے پر جلا جانا۔
دُو ر دُو بک۔ (دو-دو) (۱) شامٹ ڈپٹ۔ دھتکار۔

دُو ر دراز۔ (دو-دو) (۱) صفت) بہت فاصلے پر۔ کالے کوسوں۔ بعد از قیاس۔
دُو ر دست۔ (دو-دو) (۱) صفت) بہت دُو ر۔ کالے کوسوں پر۔ دور جگہ
 جہاں پر پہنچنا دشوار ہو۔
دُو ر دقان۔ (دو-دو) (۱) صفت) (۱) دُو ر۔ خائب (۲) الگ۔ علیحدہ۔
دُو ر دُو ر۔ (۱) کافی فاصلے کے مقامات تک۔
دُو ر دُو ر پہنچنا۔ (۱) محاورہ) (۱) شہرت ہونا (۲) دُو ر کی سوچنا۔ بلند
 پروازی۔
دُو ر دُو ر رہنا۔ (۱) محاورہ) کچھ کچھ رہنا۔ الگ رہنا۔
دُو ر رُس۔ (دو-دو) (۱) صفت) (۱) دُو ر تک پہنچنے والا (۲) بلند خیال۔
دُو ر رسی۔ (دو-دو) (۱) صفت) (۱) بلند خیالی (۲) دُو ر تک پہنچنے کی قوت۔
دُو ر سے ترسانا۔ (دو-دو) (۱) محاورہ) دُو ر سے کوئی چیز دکھانے دینا۔
دُو ر سے تماشہ دیکھنا۔ (۱) محاورہ) کسی جھگڑے میں دخل نہ دینا۔
 پاس نہ مانا۔
دُو ر سے معلوم کرنا۔ (۱) محاورہ) بیزاری ظاہر کرنا۔ دُو ر رہنا۔
دُو ر سے لینا۔ (۱) محاورہ) پاس آنے سے پہلے ہی لغت ملامت
 شروع کر دینا۔
دُو ر کا۔ (دو-دو) (۱) صفت) (۱) بید (۲) ایسا رشتہ جو قریب کا نہ ہو (۳) گہرا۔
 عمیق (۴) بعد از قیاس۔ بعد از نظر۔
دُو ر کرنا۔ (۱) محاورہ) (۱) الگ کرنا۔ علیحدہ کرنا (۲) دفع کرنا۔
دُو ر کھینچنا۔ (۱) محاورہ) تخت و عجز کرنا۔ دُو ر دُو ر رہنا۔
دُو ر کی بات۔ (۱) صفت) (۱) نکتہ۔ باریک بات۔
دُو ر کی ستانا۔ (۱) محاورہ) بزرگوں کو گالیاں دینا۔
دُو ر کی سوچنا۔ (۱) محاورہ) (۱) خیال میں کوئی باریک بات آنا (۲)
 کوئی نکتہ سوچنا۔
دُو ر کی صاحب سلامت۔ (۱) صفت) معمولی واقفیت۔
دُو ر کی کوڑی لانا۔ (۱) محاورہ) باریک بینی۔ کوئی نئی اور باریک بات سوچنا
دُو ر کی کہنا۔ (۱) محاورہ) (۱) معمولی سمجھ سے باہر کی بات کہنا (۲) سمجھ یا
 عقل کی بات کہنا۔
دُو ر کی مانگنا۔ (۱) محاورہ) (۱) شہنی ماننا۔ ڈینگ ماننا۔ دون کی لینا۔
دُو ر کے ڈھول سہالے۔ (۱) [ش] دُو ر کی سنی ہوئی بات اچھی معلوم
 ہوتی ہے۔ دیکھنے پر چیز اچھی ثابت نہ ہونا۔ حالانکہ پہلے بہت
 تعریف سنی ہو۔
دُو ر کیوں جاؤ۔ (۱) محاورہ) ایسے موقع پر کہا جاتا ہے۔ جہاں قریب
 کی مثال موجود ہو۔ دُو ر نہ جاؤ۔
دُو ر نکل جانا۔ (۱) محاورہ) (۱) فاصلے پر چلا جانا (۲) موضوع سے ہٹ جانا۔
دُو ر ہوسا مننے سے۔ (۱) کلمہ حقیر، دفع ہو۔ چل ہٹ ہٹ ہال سے۔
دُو ر ہی سے سلام کرنا۔ (۱) محاورہ) بیزاری ہونا۔ پناہ مانگنا۔
دُو ر۔ (دو-دو) (۱) مذ (۲) بڑا ٹوکرا (۳) بڑا کونڈا۔
دُو ر۔ (دو-دو) (۱) صفت) (دو-دو) (۱) مذ (۲) گردش بچکر۔ دورہ (۳) وقت زمانہ
دُو ران۔ (دو-دو) (۱) مذ (۲) گردش بچکر۔ دورہ (۳) وقت زمانہ

عمر (۳) انقلاب (۴) ہیر پھیر (۵) قسمت - لغیب (۶) اثنائیں -
 دوران خون - (ف) مذ، جسم میں خون کی گردش۔
 دورانِ سسر - (ف) ۱- مذ، سسر کا ٹھوسنا۔ سسر کا پکڑ۔
 دُورائے - (ق) صفت (ا) بھارتی - والا۔
 دُورائی - (ق) ۱- صفت (ا) خداوندی - بادشاہی۔
 دُورہ - (دورہ) (ج) ۱- مذ (ا) پیکر گردش (۲) نوبت۔ باری (۳)
 شراب کا دور (۴) گشت یعنی حکام کا اپنے اپنے علاقے میں پھر کر
 حالات کا جائزہ لینا۔
 دُورہ باندھنا - دُورہ باندھنا۔ (۱) محاورہ، پکڑ باندھنا۔ حلقہ بنانا۔
 دُورہ پڑنا - (۱) محاورہ، مرض کا رہ کر لوڈ کرنا۔ بیماری کی تکلیف کا
 اہتیار لینا۔
 دُورہ تمام کرنا - (۱) محاورہ، جس قدر گشت مقرر ہو اس کو پورا کرنا۔
 دُورہ سپرد کرنا - دُورہ سپرد ہونا - (۱) محاورہ، مقدمہ کا سیشن جج
 کے سپرد ہونا۔
 دُورہ کرنا - (۱) محاورہ، حکام کا اپنے علاقے میں پھرنا۔ گشت کرنا۔
 دُوری - (دوری) (ج) ۱- صفت (ا) چھوٹی ڈھری (۲) گڑھی۔
 دُوری - (دوری) (ف) ۱- صفت (ا) بچھڑا۔
 دُوری نظام - (Periodic System) ایسا نظام جو زمان
 و مکان کے بعد و فاصلہ سے متعلقہ سائنسی حقائق پر مبنی ہو۔
 دُورے - (ج) ۱- صفت (ا) بھاگ (۲) پہنچ - رسائی (۳) کوشش - سعی - (۴)
 حملہ - دھاوا - پڑھائی (۵) جلدی سے - سُرعت سے - تیزی سے۔
 فرار - شوق سے (۶) بھاگنا۔
 دُورے دُوری - (۱-۵) صفت، بھاگ بھاگ - تیزی جلدی - مقابلہ کی دوڑ۔
 دُورے بھیننا - (۱) محاورہ، طرزم کی گرفتاری کے لیے پولیس کے سپاہیوں
 کو بھیننا۔
 دُورے پڑنا - (۱) محاورہ، (۱) جلدی کرنا (۲) کسی مقام پر جلدی جانا یا جلدی
 سے جمع ہونا۔
 دُورے جانا - (۱) محاورہ، (۱) منتشر ہو جانا - پھیل جانا (۲) شہر ہو جانا (۳)
 پولیس کا گرفتاری ملزمان کے لیے جانا۔
 دُورے چلنا - دُورے چلنا - (۱) محاورہ، روف پکڑ ہونا - بھاگ چلنا۔
 دُورے دوڑنا - (۱) محاورہ، بار بار آنا۔ جلد جلد آنا۔
 دُورے دھوب - (۱-۲) صفت (۱) محنت - مشقت (۲) کوشش - سعی۔
 دُورے چلے نہ گھر پڑے - (۱) مثل (۱) اس وقت بولتے ہیں جب کوئی آدمی
 حیرانگی سے بڑھ کر کوئی کام کرے اور کامیاب نہ ہو۔
 دُورے لے کر دُورنا - (۱) محاورہ، طرزم کی گرفتاری کے لیے بہت جلد
 سپاہی لے کر جانا۔
 دُورے مارنا - (۱) محاورہ، (۱) بے خبری میں حملہ کرنا۔ تاخت و تاراج
 کرنا (۲) چھاپہ مارنا - دھاوا کرنا (۳) بہت کوشش یا محنت کرنا (۴)
 لمس کرنا - سافت لے کرنا۔
 دُورے - (دورے) (ج) ۱- مذ (ا) دوڑنے والا (۲) سوار - ڈاکو۔

دُورے دینا - (۱) محاورہ، (۱) بہت جلدی بھیننا (۲) بھاگ دینا۔
 دُورے آگ - (دورے) (ج) ۱- مذ، بہت دوڑنے والا۔
 دُورے آنا - (دورے) (ج) ۱- مذ، (۱) بھاگنا - جلدی چلانا (۲) پھرانا۔ حیران
 کرنا (۳) محنت کرنا - مشقت لینا (۴) روانہ کرنا - بھیننا (۵) پھیلانا۔
 بھگانا (۶) لگانا - چپکانا۔
 دُورے - (دورے) (ج) ۱- مذ، (۱) بھاگنا - جلدی جلدی قدم اٹھانا (۲)
 پھیلنا - پھیننا (۳) حملہ کرنا (۴) سرایت کرنا - اثر کرنا۔
 دوز - (ف) لاسحق، دو وقت مصدر کا صیغہ امر - اسم کے بعد اگر فاعل ترکیبی۔
 بنا دیتا ہے اور بیٹے والے کے معنی دیتا ہے جیسے خیر دوز کیش دوز
 دوزخ - (دورے) (ج) ۱- مذ، (۱) جہنم - جگہ (۲) وہ جگہ جہاں گناہ گار
 قیامت کے بعد رکھے جائیں گے (۳) رکنائتہ، پیٹ - شکم۔
 دوزخ بھرنا - (۱) محاورہ، پیٹ بھرنا۔
 دوزخ کا گندہ (اینڈھن) - (۱) مذ، بڑا بھگار۔
 دوزخ کا نمونہ - (۱) مذ، بڑی تکلیف کی جگہ۔
 دوزخ کی آبیج - (۱) صفت (۱) آتش جہنم - تیز آگ۔
 دوزخ کی ٹلی - (۱) محاورہ، پیٹ کی ٹکر۔
 دوزخ میں پڑنا (جاننا) - (۱) محاورہ، (۱) جہنم میں داخل ہونا (۲)
 مصیبت میں پڑنا۔
 دوزخ میں ٹپے (بھائے) (بددعا) بھاڑ میں بھائے۔
 دوزخ میں ڈالنا - (۱) محاورہ، عذاب جہنم میں گرفتار کرنا۔
 دوزخ میں گھر کرنا - (۱) محاورہ، گناہ کر کے سزا کا مستحق ہونا۔
 دوزخی - (دورے) (ج) ۱- صفت (۱) جہمی - گناہ گار (۲) سخت پیٹو۔
 دوس - دوش - (ج) ۱- مذ، (۱) قصور - خطا - عیب - گناہ (۲) علی العیب۔
 دوس دینا - (۱) صفت (۱) الزام لگانا (۲) قصور دار پھرنا۔
 دوست - (ج) ۱- مذ، (۱) آشنا - پیار - خیر خواہ - محبوب۔
 دوست اک باشد کہ گیر دوست دوست - (ف) مثل، دوست
 دل پریشاں حال و در ماندگی آدہ ہوتا ہے جو مصیبت
 کے وقت کام آئے۔
 دوست بنانا - (۱) محاورہ، (۱) یار بنانا - ہمزاد بنانا - طرفدار بنانا (۲) گانٹھنا
 ملانا - سازش کرنا۔
 دوست دار - (ف) ۱- مذ، دوست - خیر خواہ - ہمزاد۔
 دوست داری - (ف) ۱- صفت (۱) دوستی۔
 دوست رکھنا - (۱) محاورہ، عزیز بھگنا - پسند کرنا۔
 دوست شاد ہوں دشمن پامال ہوں - (کلمہ دہا) بڑے آدمیوں کو دی
 جانے والی دُعا۔
 دوست کا دشمن دشمن دشمن کا دشمن دوست - (۱) مقولہ، دوست
 کے دشمن کو دشمن اور دشمن کے دشمن کو دوست سمجھنا چاہیے۔
 دوست کامی - (۱) اپنا حصہ دوسرے کو دینا (۲) شراب سے دوست
 کی تواریخ کرنا۔
 دوست نما - (ف) صفت (۱) ظاہر میں دوست (۲) اپنے آپ کو

دولت - (دولت، دولت، دولت) دولت کی جمع (۲) بہت سی سلطنتیں -
 (دولت کی زیر اوری پیش دونوں مستعمل ہیں)۔
 دولاب - (دولاب، دولت) دولت کی جمع (۲) بہت سی سلطنتیں -
 (۳) بھول بھلیاں (۴) دھوکہ - وفا - فریب (۵) ڈھول
 نقارہ (۶) کھانج (۷) سوداگری - تجارت - نفع (۸) استعمال
 (۹) ذیابیطس -
 دولاموللا - (دولت، دولت) بڑی ہمت والا - سخی (۲) نیک - سیدھا سادا -
 دولانی - (دولت، دولت) دولت مند - دولت مند - دولت مند - دولت مند
 دوہرا کپڑا -
 دولت - (دولت، دولت) دولت مند - دولت مند - دولت مند - دولت مند
 نصیباً خوش قسمتی (۳) سلطنت - حکومت - طاقت (۴) ظفر مندی
 فتح (۵) خوشی (۶) اولاد - جمع : دولت -
 دولت اڑانا - (دولت، دولت) روپیہ منانے کے لئے کھول کر خرچ کرنا -
 دولت اندھی ہوتی ہے - (دولت، دولت) دولت انسان کی شکل پیش کرتا
 دیکھ کر نہیں آتی -
 دولت ایمان - (دولت، دولت) ایمان کی نعمت -
 دولت برستا - (دولت، دولت) کثرت سے روپیہ ملنا -
 دولت بہانا - (دولت، دولت) بے دریغ روپیہ خرچ کرنا -
 دولت بنیادار - (دولت، دولت) وہ دولت جس سے فائدہ حاصل کریں
 خوش بخت -
 دولت پناہ - (دولت، دولت) سلطنت کو محفوظ رکھنے والا - یہ لقب
 بادشاہوں کے لیے استعمال ہوتا ہے -
 دولت حسن - (دولت، دولت) خوب صورتی -
 دولت خانہ - دولت مند یا دولت مند - (دولت، دولت) دولت مند
 دولت خدا داد - (دولت، دولت) خدا کا دیا ہوا مالک -
 دولت خواہ - (دولت، دولت) بہتری چاہنے والا -
 دولت خواہی - (دولت، دولت) خیر خواہی -
 دولت دارین - (دولت، دولت) دولت مند - دولت مند - دولت مند
 دولت دنیا - (دولت، دولت) دولت مند - دنیاوی شان و شوکت -
 دولت و قہمتی چھاؤں ہے - (دولت، دولت) دولت مند پذیر ہے -
 دولت عظمیٰ - (دولت، دولت) بڑی سلطنت -
 دولت کھوتا - (دولت، دولت) دولت مند - دولت مند - دولت مند
 دولت کی گنگا بہانا - (دولت، دولت) بے دریغ روپیہ خرچ کرنا -
 دولت گڑھی ہونا - (دولت، دولت) دولت کا ذخیرہ ہونا -
 دولت لئے گولوں پر گھر - (دولت، دولت) دولت مند میں کفایت شکاری
 اور بے مخرج پر بے دریغ روپیہ خرچ کرنا -
 دولت ٹوٹنا - (دولت، دولت) دولت مند - دولت مند - دولت مند
 دولت مارنا - (دولت، دولت) دولت مند - دولت مند - دولت مند
 حاصل کرنا -
 دولت مدار - (دولت، دولت) خوش گاہگر (۲) وہ جگہ یا شخصیت جس پر دولت کا

دوست ظاہر کرنے والا -
 دوست نواز - (دوست، دوست) دوست پر مہربانی کرنے والا -
 دوستانہ - (دوست، دوست) دوست پر مہربانی کرنے والا -
 محبت - اُلفت -
 دوستی - (دوست، دوست) دوست پر مہربانی کرنے والا - اُلفت -
 دوستی کا دم بھرنے والا - (دوست، دوست) دوست پر مہربانی کرنے والا -
 دوستی کرنا - (دوست، دوست) دوست پر مہربانی کرنے والا -
 اُلفت ہونا -
 دوسرا - (دوست، دوست) دوست پر مہربانی کرنے والا -
 اداس سے اگلا (۳) برابر کا - مقابل کا (۴) خیر - اجنبی -
 دوسری - (دوست، دوست) دوست پر مہربانی کرنے والا -
 (۳) اور -
 دوسری بات - (دوست، دوست) دوست پر مہربانی کرنے والا -
 دوسری بات نہ ہونا - (دوست، دوست) دوست پر مہربانی کرنے والا -
 (۲) زیادہ گفتگو نہ ہونا -
 دوسری صورت پکڑنا - (دوست، دوست) دوست پر مہربانی کرنے والا -
 دوسری ماں - (دوست، دوست) دوست پر مہربانی کرنے والا -
 دوسرے - (دوست، دوست) دوست پر مہربانی کرنے والا -
 دوسرے ٹیکسے - (دوست، دوست) دوست پر مہربانی کرنے والا -
 دوسری - (دوست، دوست) دوست پر مہربانی کرنے والا -
 دوش - (دوست، دوست) دوست پر مہربانی کرنے والا -
 دوش بدوش - (دوست، دوست) دوست پر مہربانی کرنے والا -
 دوش پر لینا - (دوست، دوست) دوست پر مہربانی کرنے والا -
 دوشالہ - (دوست، دوست) دوست پر مہربانی کرنے والا -
 دوشیزگی - (دوست، دوست) دوست پر مہربانی کرنے والا -
 گنوارا ہونے کا زمانہ -
 دوشیزہ - (دوست، دوست) دوست پر مہربانی کرنے والا -
 ناگنڈا لڑائی - (دوست، دوست) دوست پر مہربانی کرنے والا -
 دوشیزہ - (دوست، دوست) دوست پر مہربانی کرنے والا -
 دوغ - (دوست، دوست) دوست پر مہربانی کرنے والا -
 دوغلا - (دوست، دوست) دوست پر مہربانی کرنے والا -
 ایک قوم کے نہ ہوں (۲) کینہ - کم ذات - گھٹیا -
 دوغلی - (دوست، دوست) دوست پر مہربانی کرنے والا -
 ایک قوم کے نہ ہوں (۲) کینہ - کم ذات -
 دوغلی بات - (دوست، دوست) دوست پر مہربانی کرنے والا -
 دوک - (دوست، دوست) دوست پر مہربانی کرنے والا -
 دانست بننے ہوں -
 دوکال - (دوست، دوست) دوست پر مہربانی کرنے والا -
 دوکھنا - (دوست، دوست) دوست پر مہربانی کرنے والا -
 پوشیدہ عیب کو ظاہر کرنا (۲) بڑا گناہ (۵) بات کا ٹھنڈا -

انحصار ہو۔

دولت مند - (ف۔ صنف) (۱) امیر۔ مالدار (۲) خوش قسمت خوش نصیب
دولت مندی - (ف۔ صنف) (۱) امیری۔ مالداری۔
دولت مندیر کا کوا ہے۔ (۱) دولت کبھی ایک جگہ نہیں رہتی۔
دو لہا - (دو۔ لہا) (۱) مذ۔ وہ شخص جس کی نئی نئی شادی ہوئی ہو۔ نو شاہ۔
بلنرا (۲) خادد۔ شوہر۔ بڑ۔
دو لہا بننے بیٹھنے رہنا - (۱) محاورہ) عزت و وقار کے ساتھ بیٹھنے رہنا۔
کچھ کام نہ کرنا۔
دو لہا بھائی - (۱) مذ۔ بہن کا شوہر۔ بہنوئی۔

دو لہن - (دو۔ لہن) (۱) مذ۔ وہ عورت جس کی نئی نئی شادی ہوئی ہو۔
عروس۔

دو م - (دو۔ م) (ف۔ صنف) دوسرا۔ دیگر۔ ثانی۔
دون - (۱) مذ۔ آگ جو جنگل میں لگ جائے۔ آگ۔ سمت گرمی پیاس
یا گرمی کی شدت۔ سوزش۔ جلن۔ جوش۔
دون لگنا - (۱) سمت گرمی لگنا (۲) عشق کے جوش میں جلنا (۳) کسی چیز
کے لیے خواہش یا تمکون کرنا۔

دوان - (۱) مذ۔ (۱) ڈگنا (۲) اُونچے مڑنے کی آواز۔ تیز گت (۳) شیخی
ڈینگ۔ لاف و کراف (۴) پہاڑی تیلی۔

دون پر آنا - (۱) محاورہ) شیخی مارنا۔ ڈینگ مارنا۔
دون کی (ارٹانا) لینا - (۱) محاورہ) (۱) شیخی بھگانا (۲) خود ستانی کرنا۔
دون - (۱) صنف) (۱) حقیر۔ کیندا۔ ادنی۔ پاجی (۲) رُسوا۔ غیر۔
دول ہمت - (ف۔ صنف) کم ہمت۔ ہیبت ہمت۔
دونا - (دو۔ نا) (۱) مذ۔ (۱) پتوں کا پیالہ۔ پیس (۲) نیاز کی چیز جو
دونوں میں لائی جاتی ہے۔

دونا بانڈھنا - (۱) محاورہ) دونا بنانا۔ پتوں کا ظرف بنانا۔
دونا پتر پھنا - (۱) محاورہ) مزاج پر بھول یا شیرینی کا پڑھا دا پڑھنا۔
دونا دینا - (۱) محاورہ) حضرت علیؑ یا حضرت فاطمہؑ کی نیاز دینا۔

دونا ماننا - (۱) محاورہ) نذر ماننا۔ منت ماننا۔
دونا - (دو۔ نا) (۱) مذ۔ (۱) ڈنگ۔ دو چنڈ۔ دو بالا (۲) دہرا۔
دونا ڈول - (۱) محاورہ) دو چنڈ۔ زیادہ۔ بہت زیادہ۔

دونڈ - (دو۔ دنڈ) (دس۔ ۱) مذ۔ (۱) جوڑا۔ جگ۔ جوت۔ ڈگڑا (۲) دو ج۔
جوڑا ہونا (۳) دو مختلف خاصیتوں کی چیزیں جن کا اکٹھا ذکر کیا جائے
جیسے گرمی سردی۔ خوشی۔ رخ۔

دو ٹنگنا - (دو۔ ٹنگ۔ نا) (۱) مذ۔ (۱) دھاڑا۔ عزانہ۔ چنگھاڑنا۔
دو ٹنگڑا - (دو۔ ٹنگ۔ ٹرا) (۱) مذ۔ (۱) زور کی بارش۔
دو - (ف۔ دس) (۱۰)۔

دوہ دنیا ستر در آخرت - (ف۔ مش) نیک کام کا بدلہ دنیا میں دس گنا
اور آخرت میں ستر گنا ملے گا۔

دو پ - (دو۔ پ) (۱) مذ۔ (۱) دو مصرعوں کا ہندی شعر۔
دو پائی - (دو۔ پائی) (۱) مذ۔ (۱) شوروخوٹا (۲) پیچ۔ پھکا۔

(۳) کسی کو پکار کر مدد کے لیے بلانا (۴) داد خواہی۔ استغاثہ (۵) منادی
اعلان (۶) حلف۔ قسم۔

دو پائی پکارنا - (۱) محاورہ) فریاد کرنا۔
دو پائی پھرنانا - (۱) محاورہ) منادی کرنا۔ ڈھنڈورا پیٹنا۔ اشتہار کرنا۔
دو پائی پھرتانی بچانا - (۱) محاورہ) امداد کے لیے فریاد کرنا۔
دو پائی دینا - (۱) محاورہ) کسی کا نام لے کر فریاد کرنا (۲) شور
کرنا۔ غل مچانا۔
دو پائی مانگنا - (۱) محاورہ) پناہ مانگنا۔

دو پائی ہونا - (۱) محاورہ) فریاد ہونا۔ دو پائی! دو پائی! آواز ہونا۔
دو پائی سے - (کلمہ مدد) فریاد سے!
دو ہوتا - (دو۔ ہوتا) (۱) مذ۔ (۱) بیٹا کا بیٹا۔ نواسا۔
دو ہتی - (دو۔ ہتی) (۱) مذ۔ (۱) مٹھی کی مٹھی۔ نواسی۔
دو ہیر - (دو۔ ہیر) (۱) مذ۔ (۱) ریشمی زمین کا کھیت (۲) دولائی۔
دوہری چادر۔

دوہرا - (دو۔ ہرا) (۱) صنف) (۱) دو تہر کا۔ ڈنگ (۲) ٹیڑھا۔
دوہرا ہونا - (۱) محاورہ) ٹیڑھا ہونا۔ ڈونا ہونا۔
دوہری - (دو۔ ہری) (۱) صنف) دوہرا کا نمونہ۔ ٹیڑھی۔
دوہلی - (دو۔ لی) (۱) صنف) وہ زمین جس کی مالکذاری معاف کر کے
مذہبی اداروں کو دی جائے۔

دوہنا - (دو۔ ہنا) (۱) صنف) مٹھن سے دودھ نکالنا۔
دوہنی - (دو۔ نی) (۱) صنف) دودھ دوہنے کا برتن۔
دوئی - (دو۔ ای) (۱) صنف) (۱) غیرت (۲) جدائی (۳) ان بن۔ بھگڑا۔
(۴) دو سمجھنا۔ منکر۔

دوئی ڈالنا - (۱) محاورہ) لڑائی کرنا۔ جدائی ڈالنا۔ غیرت پیدا کرنا۔
دوئی کا پروردہ اٹھنا - (۱) محاورہ) غیرت مٹنا۔ ایک ہونا۔

د - ۵

دہ - (ف۔ لاحتہ) دادن مصدر کا صیغہ امر۔ اسم کے بعد اگر اسے اسم فاعل

ترکیبی بناتا ہے اور دینے والا کے معنی دیتا ہے جیسے تحلیف دہ۔
دہ - (د۔ ۵) (۱) مذ۔ (۱) بہت گہرا پانی (۲) گہرائی۔

دہ - (ف۔ صنف) دس (۱۰)۔
دہ چنڈ - (ف۔ صنف) دس گنا۔

دہ در دنیا ستر در آخرت - (ف۔ متمولہ) نیک کام کا بدلہ دنیا میں
دس گنا اور آخرت میں ستر گنا ملتا ہے۔

دہ در دہ - (ف۔ ۱) (۱) مذ۔ (۱) دس گنا۔ دس گنا۔ دس گنا۔ دس گنا۔
جہا کا بانی شرعاً پاک ہوتا ہے۔

دہ حواس - (ف۔ صنف) پانچ حواس اور پانچ باطنی حواس۔
دہ سیرس - (ف۔ ۱) صنف) دس سیر کا وزن۔

دُہل - ۱- دہشتا (۱) خوف - ڈر - تردد - گھبراہٹ (۷) دُکندل۔
 دُہل جانا - (۱- محاورہ) دُرجانا - رُعب کھا جانا۔
 دُہل - (۱- ذمہ) دُصول - نفاذ۔
 دُہل زنی ہونا - دُصول ہونا۔
 دُہلا - (دہ - لا) (دہ - ۱- مذ) تاش کا پتہ جس پر دس نشان ہوں۔
 دُہلنا - (دہ - ہل - نا) (دہ - مص) (۱) رُعب کھانا - ڈرنا (۲) زمین کا پھٹ جانا یا جنبش میں آنا۔
 دُہلوی - (دہ - لی - وی) (اُرُصف) دہلی کا باشندہ - دہلی سے مستقیم۔
 دہلی سے نسبت رکھنے والا۔
 دُہلی - (دہ - لی) (دہ - ۱- مٹ) (۱) گنوار - چوکھٹ - دہلیز (۲) ہندوستان کا دارالحکومت - دیکھیے دہلی۔
 دہلی کا کوٹوال - (۱- مذ) (۱) مفروضی (۲) نازک مزاج۔
 دہلی کے لیوے لے ڈالنا - (۱- محاورہ) (۱) کسی کے مال بار بار جانا۔
 (۲) بے حد تقاضے کرنا۔
 دُہلیز - (دہ - لیز) (دہ - ۱- مٹ) (۱) چوکھٹ (۲) ڈیڑھی - دروازہ۔
 دُہلیز لانا - (۱- محاورہ) چوکھٹ کو محور کرنا۔ دروازے میں سے نکلنا۔
 دُہلیز جھانکنا - کسی کے پاس کسی کام کے لیے جانا۔
 دُہلیز چومنا - (۱- مٹ) بے حد عزت کرنا - قدم بوس ہونا۔
 دُہلیز کاگنا - (۱- مذ) (۱) پالتوگنا - گھر کا کتا (۲) مُفت خورا۔
 دُہلیز کھندلانا - (۱- محاورہ) سنگی کے بعد لڑکے کے اپنے سسرال جانے کی ایک رسم۔
 دُہلیز کی مٹی لے ڈالنا - (۱- محاورہ) بہت سے پھیرے کرنا۔ کسی چیز یا کسی کام کے تقاضے کے لیے کسی کے گھر بار بار آنا۔
 دُہلیز کے گے سے بے نہیں جانا - (۱- مثل) بے وقوفی کی حرکتوں سے دستبرداشت نہیں جاتی۔
 دُہلیز لانا کھنڈنا - دُہلیز نا کھنڈنا - دروازے سے باہر قدم رکھنا۔ ایک گھر سے دوسرے گھر جانا۔
 دُہلیز نہ چھانکنا - (۱- محاورہ) دروازے تک نہ جانا۔ پردے میں رہنا۔
 دُہم - (دہ - ہم) (دہ - صفت) (۱) دسواں (۲) محترم کی دسویں تاریخ۔
 دُہن (دہان) - (دہ - ۱- مذ) مُنہ۔
 دُہن بند - نقاب - مُنہ پر باندھنے کا پھندا۔
 دُہن بندی - (دہ - ۱- مٹ) تقریر کی حماقت - زبان بندی۔
 دُہن تینگ - (دہ - ۱- صفت) چھوٹا مُنہ۔
 دُہن تیخ - (دہ - ۱- مذ) تلوار کی دھار۔
 دُہن دریدہ - (دہ - صفت) مُنہ پھٹ - گستاخ - بے شرم۔
 دُہن زخم - (دہ - ۱- مذ) زخم کا مُنہ یا سُوراخ۔
 دُہن زخم کا ہینٹنا - (۱- محاورہ) زخم کا کھل جانا۔
 دُہن سگ بہ لقمہ دوختہ بہ - (دہ - مثل) کسی شخص کی ایذا ہی سے بچنے کے لیے کچھ دے دینا چھتا ہوتا ہے۔ کئے کا مُنہ روٹی کا گولہ ڈال کر ہی دینا چاہیے۔

دُہن کھولنا - (۱- محاورہ) مُنہ کھولنا۔ بات کرنا۔
 دُہنا - (دہ - نا) (دہ - صفت) راست - سیدھا ہاتھ۔
 دُہنا قدم لینا - (۱- محاورہ) (۱) چالاکی یا شہارت کا قابل ہونا (۲) طنزاً تنقید کرنا۔
 دُہندہ - (دہ - ہند) (دہ - صفت) دہندہ کا مختلف - دینے والا۔ ادا کرنے والا۔
 دُہندگان - (دہ - ہن - دہ - گان) (دہ - صفت - جمع) دہندہ کی جمع۔ دینے والے۔
 دُہندہ - (دہ - ہن - دہ) (دہ - صفت) ادا کرنے والا - دینے والا۔
 دُہنی - (دہ - نی) (دہ - ۱- مٹ) دُودھ کا برتن۔
 دُہنیت - (دہ - ہنی - یت) (دہ - ۱- مٹ) پکنائی - پکنا ہٹ - روغن - چربی۔
 دُہی - (دہ - ہی) (دہ - ۱- مذ) جھا ہوا دُودھ۔
 دُہی جمانا - (۱- محاورہ) دُودھ میں تھوڑی کھٹائی ڈالنا تاکہ وہ جم جائے۔
 دُہی دہی کرنا - (مثل) کسی پوشیدہ بات کو جاہی مشہور کرتے پھرنے۔
 دُہی پھلی - نیک نکلون۔
 دُہی پھلی کی مٹی - (۱- مٹ) ساجتی کے روز مٹی میں دُہی بھر کر اور ساتھ ایک پھلی لٹکا کر دُھکا کے گھر لے جانے کی رسم۔
 دُہے - (دہ - ہے) (دہ - ۱- مذ) (۱) محترم کے پہلے دس دن (۲) تعزیتے۔
 دُہیا - (دہ - یا) (دہ - ۱- مٹ) دُودھ دینے والا جانور۔
 دُہیج - (دہ - ہیج) (دہ - ۱- مذ) دُہیز کا بگڑا ہوا لفظ - جہیز۔
 دُہیز - (دہ - ہیز) (دہ - ۱- مذ) (۱) چہیز (۲) لڑکی کو رخصت کرتے وقت جو سامان دیتے ہیں۔
 دُہیلا - (دہ - ہے - لا) (دہ - صفت) (۱) سنجی جھیلنے والا (۲) نیند بھرا۔
 دُہیم - (دہ - ہیم) (دہ - ۱- مذ) شاہان ایران کا تاج۔
 دُہیندگی - (دہ - ہین - گی) (دہ - ۱- مٹ) (دہ - ۱- صفت) جس میں دُودھ جائیں۔
 دُہینگی کی بڑی ہانڈی۔
 دُہینگہ - (دہ - ہین - گہ) (دہ - ۱- مذ) (دہ - ۱- صفت) جس میں دُہی رکھتے ہیں۔

دھ

دھا - (دہ - ۱- مذ) (۱) ترانہ - لے - ستر - آہنگ (۲) چھٹا ستر (۳) دُودھ پلانے والی۔
 دھابا - (دھا - با) (دہ - ۱- مذ) (۱) مٹی کی ہموار چھت (۲) مکان جس کی چھت ہموار ہو اور مٹی کی ہی ہو (۳) پہلی نظر (رق)۔
 دھاب - (دہ - ۱- مذ) (۱) دھابہ جو انسان بغیر ٹھہرنے کے دوڑے (۲) فاصلہ - دُوری (۳) میدان (۴) گھات - رستہ (۵) بارہ انچ۔
 دھاپنا - (دھاب - نا) (دہ - مص) (۱) تسلی کرنا (۲) سیر کرنا (۳) بھرنے۔
 دھات - (دہ - ۱- مٹ) (۱) وہ معدنی جو ہر جس میں پھلنے کی خصوصیت ہو۔
 جیسے سونا۔ چاندی (۲) پیشاب کے ساتھ خارج ہونے والا سفید مادہ۔

دھاڑکی دھاڑ۔ (۱-۵) مٹھ) جمع۔ انہوہ۔ جیم خنجر۔
 دھاڑ مارنا۔ (۱-۱) محاورہ) (۱) ڈاکہ مارنا (۲) دھاوا کرنا۔ حملہ کرنا۔
 دھاڑا۔ (دھا۔ ڈا)۔ (۱-۵) مذ (۱) ظلم۔ زبردستی (۲) ڈاکہ۔
 دھاڑنا۔ (دھاڑنا)۔ (۱-۵) مص (۱) شیر کا گر جنا (۲) چلانا۔ مٹھل چمانا (۳)
 بچوں کا تیز آواز سے رونا۔
 دھاڑی۔ (دھاڑی)۔ (۱-۵) مذ (۱) نامی چور۔ گھبرا۔ ڈاکو۔
 دھاگ۔ (۱-۵) مٹھ (۱) شہرت۔ شہرہ۔ غلغلہ۔ دھوم (۲) ڈر۔ خوف۔
 (۳) رعب دلب۔ دیدار (۴) شان و شوکت۔
 دھاگ بندھنا۔ (۱-۱) محاورہ) (۱) رعب ہونا۔ سیکہ بیٹھنا۔
 دھاگ بیٹھنا۔ دھاگ جھنا۔ (۱-۱) محاورہ) رعب قائم ہونا۔
 دھاگ ہونا۔ (۱-۱) محاورہ) (۱) شہرہ ہونا (۲) رعب ہونا۔
 دھاگا۔ (دھا۔ گا)۔ (۱-۵) مذ (۱) ڈور سوت۔ تاگا۔ تامہ (۲) دھوکا۔ فریب۔
 دھام۔ (۱-۵) مذ (۱) گھر۔ خانہ۔ مکان (۲) بہشت۔
 دھامین۔ (دھا۔ مین)۔ (۱-۵) مذ (۱) ایک قسم کا آڑھا (۲) ایک قسم
 کا بانس جس کی کمان اور غیل بناتے ہیں (۳) ایک قسم کی عمدہ گھاس
 (۴) قاصد۔
 دھان۔ (۱-۵) مذ (۱) چاول کا پودا (۲) جھلکے دار چاول۔
 دھان بان۔ (۱-۱) مذ (۱) نازک اندام۔ ڈھلا پتلا۔
 دھان کا گاؤں پوال سے پچا جاتا ہے۔ (۱-۱) مثل (۱) آٹا سے ہی
 کسی کی خصلت کا اندازہ ہوجاتا ہے۔
 دھان کٹا۔ (۱-۵) مذ (۱) دھان کوٹنے کا موسم۔
 دھاندل۔ (دھا۔ دل)۔ (۱-۵) مٹھ (۱) جھگڑا۔ بھکار (۲) بے ایمانی
 دھوکا۔ فریب۔
 دھاندل کرنا۔ دھاندل چمانا۔ (۱-۱) محاورہ) (۱) جھگڑا کرنا (۲) زبردستی کرنا
 بے ایمانی کرنا۔ بدصافگی کرنا۔
 دھاندلی۔ (دھا۔ دل)۔ (۱-۵) مٹھ (۱) جھگڑا (۲) بے ایمانی فریب
 (۳) ناحق کام۔
 دھاندلی کرنا۔ (۱-۱) مذ (۱) دغا بازی کرنا۔ زبردستی کوئی چیز چھین لینا۔
 دھاندلیا۔ (دھا۔ دل)۔ (۱-۵) مذ (۱) دھاندلی کرنے والا۔ دھوکا
 دینے والا۔
 دھانس۔ (۱-۵) مٹھ (۱) مزے یا تباہی کی تیز جو جس سے کھانسی آنے لگے۔
 (۲) کسی تیز جو سے گلے میں پیدا ہونے والی خراش (۳) جھلک کھانسی۔
 دھانسا۔ (دھانس۔ نا)۔ (۱-۵) مص (۱) گھوڑے یا بیل کا کھانسا۔
 دھانسی۔ (دھا۔ سی)۔ (۱-۵) مٹھ (۱) گھوڑے وغیرہ کی کھانسی۔
 دھانگ۔ (دھا۔ نگ)۔ (۱-۵) مذ (۱) تیر انداز۔ کمان دار (۲) تیر کمان
 سے مسلح ہو کماندار۔
 دھانگڑ۔ (دھا۔ گڑ)۔ (۱-۵) مذ (۱) ایک قوم جو کنوئیں اور تالاب
 کھودتی ہے۔
 دھا لوٹ۔ (۱-۵) مذ (۱) دھاوا (۲) دوڑ۔ راستہ (۳) عزم۔ ارادہ۔
 دھانی۔ (دھا۔ نی)۔ (۱-۵) مص (۱) دھان کے رنگ کا (۲) ہلکا سبز رنگ

(۳) طریقہ۔ طور (ق)۔
 دھات آنا۔ (۱-۱) محاورہ) پیشاب کے ساتھ منی نکلنا۔
 دھا چک۔ (دھا۔ چک)۔ (ق)۔ (۱-۱) مذ (۱) اندیشہ۔ دہشت۔ خوف۔
 دھار۔ (۱-۵) مٹھ (۱) کسی گرتی ہوئی سیال چیز کا تار (۲) خط۔ کیر (۳)
 تلوار کی باڑھ یا تیزی (۴) دریا کا وسط یا بہاؤ (۵) پہاڑوں کا سلسلہ۔
 (۶) دودھ یا شراب جو بوتلا کو پڑھائی جائے (۷) بارش کا
 پھینسا (۸) حمد۔
 دھا رالٹ چمانا۔ (۱-۱) محاورہ) باڑھ گند ہوجانا۔
 دھا ر بانڈھنا۔ (۱-۱) محاورہ) سحر یا اشوں کے زور سے تلوار کی دھا ر گند
 کر دینا (۲) پانی یا کسی سیال چیز کو لگا تار کرنا۔
 دھا ری پٹھ چمانا۔ (۱-۱) محاورہ) باڑھ گند ہوجانا۔
 دھا ر پر مارنا۔ (۱-۱) محاورہ) (۱) پردانہ کرنا۔ خاطر یا خیال میں نہ لانا۔
 (۲) ٹالائی سمجھنا۔
 دھا ر پڑھانا۔ (۱-۱) محاورہ) دیتا یا گنگا جہنا پر منت مان کر دودھ
 کھردھا ڈالنا۔
 دھا ر چھوٹنا۔ (۱-۱) محاورہ) زور سے دھا ر نکلنا۔
 دھا ر دار۔ (دھ۔ صفت) تیز۔ باڑھ دار۔
 دھا ر دھرنا (رکھنا)۔ (۱-۱) محاورہ) (۱) تیز کرنا (۲) پھینکنا۔
 دھا ر کرنا۔ (۱-۱) محاورہ) گند ہونا۔ دانستہ پڑنا۔
 دھا ر لگانا۔ دھا ر مارنا۔ (۱-۱) محاورہ) مٹھنا۔ پیشاب کرنا۔
 دھا ر لینا۔ (۱-۱) محاورہ) (۱) منہ میں دودھ کی دھا ر لینا (۲) تھنوں سے منہ
 لگا کر دودھ پینا۔
 دھا ر نکلنا۔ (۱-۱) محاورہ) (۱) دودھ دوہنا۔ دودھ نکلنا (۲) تیز کرنا۔
 دھا ر نہ مارنا۔ (۱-۱) محاورہ) پروا نہ کرنا۔
 دھا رول رولنا۔ (۱-۱) محاورہ) بہت رولنا۔ آسوں کا تار لگانا۔
 دھا رار۔ (دھا۔ را)۔ (۱-۵) مذ (۱) چشمہ۔ سوتا۔ بہاؤ۔ منبع۔ آبشار۔ پانی بہنے
 کی جگہ (۲) دریا کے وسط میں پانی کا بہاؤ۔
 دھا ربک۔ (دھا۔ ربک)۔ (۱-۵) مص (۱) صالح نیک عین (۲) مذہبی۔
 دھا رن۔ (دھا۔ رن)۔ (۱-۵) مذ (۱) پڑ (۲) برداشت (۳) قبضہ (۴)
 حصول (۵) ذمہ (۶) پھاؤ (۷) ہیناوا (۸) سوچ۔
 دھا رن کرنا۔ (۱-۱) محاورہ) (۱) اختیار کرنا (۲) قبول کرنا (۳) تولنا۔
 دھا رنا۔ (دھا۔ رنا)۔ (۱-۵) مص (۱) اختیار کرنا (۲) رکھنا (۳) کسی عضو پر گم
 پانی کی دھا ر ڈالنا (۴) پرورش کرنا۔ پالنا۔ سنبھالنا۔
 دھا ری۔ (دھا۔ ری)۔ (۱-۵) مٹھ (۱) کیر۔ خط (۲) نالی (۳) چھوٹا پستہ
 (۴) فوج (۵) حمد۔ کنارہ (۶) صفت (۷) کھڑے والا۔
 دھا ری دار۔ (۱-۵) صفت) وہ شے جس پر خط بڑے ہوئے ہوں۔
 دھاڑ۔ (۱-۵) مٹھ (۱) ہجوم۔ انہوہ۔ مجمع۔ چوروں کا جھنڈا (۲) جلدی۔
 اشد ضرورت (۳) مشکل۔ مصیبت (ق)۔
 دھاڑ پڑنا۔ (۱-۱) محاورہ) (۱) چوروں کے گروہ کا حملہ آور ہونا۔ (۲)
 جلدی ہونا۔

دھجیاں کرنا۔ دھجیاں اڑانا۔
 دھجیاں لگانا۔ (۱- محاورہ) پھٹے ہوئے کپڑے پہننا۔
 دھجیاں لگانا۔ (۱- محاورہ) نہایت محسوس یا غریب ہونا (۲) کپڑے پھٹ جانا۔
 دھجیاں لینا۔ (۱- محاورہ) کپڑوں کا پھاڑنا۔ ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔
 شرمندہ کرنا۔
 دھجیاں ہونا۔ (۱- محاورہ) پرزہ پرزہ ہونا۔ ٹکڑے ٹکڑے ہونا۔
 دھجیر۔ (دھ- جیر) (۱- امت) [دھجی- کاغذ یا کپڑے کی لمبی کترن۔
 دھجیلا۔ (دھ- جی- لا) (۱- صفت) (۱) خوش اندام۔ سخیلا۔ جامہ زیب۔
 دھچکا۔ (دھ- چ- کا) (۱- مذ) (۱) صدر۔ دھکا (۲) جھٹکا۔ چکولا (۳)
 نقصان۔ گھاٹا۔
 دھچکا دینا۔ (۱- محاورہ) نقصان پہنچانا۔
 دھچکا لگانا۔ (۱- محاورہ) صدر ہونا۔ نقصان ہونا (۲) چکولا لگانا۔
 دھکا لگانا۔
 دھچکانا۔ (دھ- چ- کا- نا) (۱- ق- معن) ڈرانا۔ ڈرنا۔
 دھدھکا۔ (دھ- دھک) (۱- صفت) جلتی ہوئی آگ کا شعلہ۔
 دھہ۔ (۱) حرف اشخاص (۱) مصدر دھہنا کا مصدر امر وجود دوسرے مصدروں
 کے ساتھ مل کر معنوں میں زور پیدا کرتا ہے جیسے دھہ گھیٹنا (۲)
 طرف۔ نزدیک (ق)۔
 دھہ بکڑ۔ (۱) امت) گرفتاری۔
 دھہ بڑکے۔ (۱- امت) زبردستی۔
 دھہ بڑکنا۔ (۱- محاورہ) (۱) گرفتار کر لینا۔ جلدی سے پکڑ لینا (۲) پھانس لینا
 دھہ چھوڑنا۔ (۱- محاورہ) رکھ لینا۔
 دھہ دباننا۔ (۱- محاورہ) دبوچ لینا۔ مغلوب کر لینا۔
 دھہ دھہ بھولو۔ (کھڑ دھا) بہت دولت مند ہو۔ بہت امیر ہو۔ خوب
 دولت بڑے۔
 دھہ دھہ کے پینا۔ (۱- محاورہ) (۱) زور سے پینا (۲) غلم کرنا۔
 دھہ رکھنا۔ (۱- محاورہ) (۱) رکھ چھوڑنا۔ نہ دینا (۲) مقام لینا۔
 پکڑ رکھنا۔
 دھہ رکھنا۔ (۱- محاورہ) بری طرح رکھنا۔ خوب ذلیل کرنا۔
 دھہ کے گنا۔ (۱- محاورہ) سخت تابو کرنا۔
 دھہ کے مروڑنا۔ (۱- محاورہ) زور کر کے مروڑنا۔
 دھہ گھیٹنا۔ (۱- محاورہ) زور سے گھیٹنا۔
 دھہ لگنا۔ (۱- محاورہ) سب کام چھوڑ بھاڑ کر بھگانا۔
 دھہ لینا۔ (۱- محاورہ) (۱) رکھ لینا (۲) خوب خبر لینا (۳) قائل کرنا (۴)
 متواتر عمل کرنا۔ پکڑ لینا۔
 دھہ۔ (۱- مذ) (۱) اتمام۔ اخیر۔ انتہا (۲) سیدھا راستہ جو منزل مقصود
 پر منتج جائے (۳) فاصلہ۔ حد (۴) شروع۔ ابتداء۔
 دھہ درگاہ۔ (۱- امت) منزل مقصود۔
 دھہ سے۔ (۱) ابتداء سے۔ شروع سے۔

دھہ سے دھہ تک۔ (۱) شروع سے آخر تک۔
 دھہ کی لڑنا۔ (۱- محاورہ) (۱) شروع سے ہی کام خراب ہو جانا (۲)
 زندگی کا فاتحہ ہو جانا۔
 دھہ کی کوئی نہیں جڑتی۔ (۱- مثل) [تقدیر ہی خراب ہو تو کچھ
 نہیں ہو سکتا۔
 دھہ۔ (۱) رکھا۔
 دھہا جانا۔ (۱- محاورہ) پکڑا جانا۔ مصیبت میں پھنسا۔
 دھہا دھنگا۔ (۱- محاورہ) لکھا رکھا یا بچا لکھا۔
 دھہا رہنا۔ (۱- محاورہ) (۱) لکھا رہنا (۲) سیکار ہونا۔
 دھہا کیا ہے۔ (۱- محاورہ) (۱) کیا خاص بات ہے (۲) کچھ طاقت نہیں
 (۳) کچھ موجود نہیں۔
 دھہا۔ (دھہ- دا) (۱- مذ) (۱) لوہے کی سلاح جس پر پتیا پھرتا ہے۔
 (۲) زمین کا محور جس پر زمین گردش کرتی ہے (۳) ڈانڈا۔
 دھہا۔ (دھہ- ل) (۱- امت) [دھہ- چیتھڑا۔
 دھہ سے اڑانا۔ (۱- محاورہ) (۱) بہت مار پڑنا۔ رٹوا ہونا (۲)
 دھجیاں اڑنا۔
 دھہا دھہ۔ (۱) شروع سے آخر تک۔
 دھہ پت۔ دھہ پت۔ (دھہ- پت) (دھہ- پت) (۱- صفت) کلاسیکی موسیقی
 کا ایک قدیم انداز یا انگ۔
 دھہرت۔ (دھہ- رت) (۱- صفت) [دھہرتی۔ زمین۔
 دھہرتا۔ (دھہرتا) (۱- مذ) (۱) مدوگار۔ بچانے والا۔ محافظ (۳) مقروض
 (۴) پڑنے والا (۱- صفت) [بھائی۔ بھائی۔ گھوٹی۔ گھینٹ۔
 دھہرتی۔ (دھہرتی- ری) (۱- صفت) (۱) دھرتی۔ زمین (۲) دنیا۔
 دھہرتی۔ (دھہرتی- ری) (۱- صفت) (۱) زمین (۲) مٹی۔ اراضی (۳) زمین۔
 دھہرتی کا پھول۔ (۱- مذ) (۱) بینڈک (۲) لکھنا۔ گھنٹی (۳)
 نو دولت۔
 دھہرتی کے پردے پر۔ زمین کے اوپر۔ اس دنیا میں۔
 دھہ کار۔ (دھہ کار) (۱- مذ) وہ شخص جو نقل سے چیزیں بناتا ہے۔
 دھہ کت۔ (۱- صفت) خیر۔ اچھائی۔ بھلائی۔
 دھہرم۔ (دھہ- رم) (۱- مذ) (۱) پکا حکم یا قانون (۲) رسم۔ رواج (۳)
 مذہب۔ ملت (۴) ایمان۔ عقیدہ (۵) دستور۔ قاعدہ (۶) حق۔ انصاف (۷)
 نیکی۔ نیک کام (۸) خصوصیت۔ نشان (۹) ایک خاص رسم (۱۰) بھینٹ۔
 دھہرم آتما دھہر ماتما۔ (۱- صفت) سخی۔ فیاض۔ نیک۔
 دھہرم ابدیش۔ (۱- مذ) (۱) مذہبی وعظ (۲) اخلاق و ادب۔
 دھہرم اٹھاتا۔ (۱- محاورہ) قسم کھانا۔
 دھہرم ارتھ۔ خیراتی روپیہ۔ مال وقف۔
 دھہرم اوتار۔ (۱- مذ) مقدس۔ پاک۔ پوتر۔
 دھہرم باب۔ (۱- مذ) وہ شخص جو مبتنی بنائے۔ منہ بولا باب۔
 دھہرم بگاڑنا۔ (۱- محاورہ) (۱) ایمان کھونا (۲) دوسرے کا ایمان خراب کرنا
 (۳) عورت سے زبردستی زنا کرنا۔

دھرم بلیا۔ (۱۰-۱) مذ متبی۔ چیل۔
 دھرم بھریشٹ کرنا۔ (۱-۱) محاورہ) دین کو بگاڑ دینا۔
 دھرم پستہ۔ (۱۰-۱) مذ) وہ بیٹا جو فریضہ مذہبی کی ادائیگی کے لیے پیدا کیا جائے۔
 دھرم پلینی۔ (۱۰-۱) مٹ) دھرم کے بوجب بیاہی ہوئی عورت۔ بیوی۔
 دھرم پٹی۔ دھرم کے بوجب شادی شدہ مرد۔
 دھرم تیناک دینا۔ (۱-۱) محاورہ) دھرم چھوڑ دینا۔ دوسرا مذہب اختیار کر لینا۔
 دھرم چاری۔ (۱۰-۱) صفت) نیک۔ صالح۔ پارسا۔
 دھرم دکھا۔ (۱۰-۱) مذ) وہ صدمہ جو مذہب کے باعث پہنچے۔ ناسخ کا دکھ۔
 دھرم راج۔ (۱۰-۱) مذ) ۱) عادل اور منصف بادشاہ (۲) وہ حکومت چھال پتورا پورا انصاف ہو۔
 دھرم رکھشا۔ (۱۰-۱) مٹ) ۱) دھرم یا قانون کی مخالفت کرنا۔
 دھرم رکھشک۔ (۱۰-۱) صفت) مذہب انصاف یا قانون کا محافظ۔
 دھرم ریت۔ (۱۰-۱) مٹ) مذہبی رسم۔
 دھرم سالہ۔ دھرم سالہ۔ (۱۰-۱) مٹ) صفت) مسافر خانہ۔ خیراتی سرائے۔
 دھرم سماج۔ (۱۰-۱) مٹ) مذہبی سوسائٹی۔ مذہبی انجمن۔
 دھرم سے۔ (۱۰-۱) ایمان سے (۲) دیانت داری سے (۳) تم سے۔
 دھرم شاستر۔ (۱۰-۱) مذ) مذہبی قوانین کا مجموعہ۔ منوں کی کتاب قوانین۔
 دھرم کرنا۔ (۱۰-۱) محاورہ) ۱) کوئی فرض ادا کرنا (۲) انصاف کرنا (۳) نیک کام کرنا (۴) خیرات کرنا۔
 دھرم کمانا۔ (۱۰-۱) محاورہ) ۱) نیک کام کر کے اگلے جنم کے لیے پُن (ثواب) جمع کرنا (۲) ملتی (نجات) حاصل کرنا۔
 دھرم گورو۔ (۱۰-۱) مذ) مذہبی استاد۔
 دھرم کیانی۔ (۱۰-۱) مذ) عالم دین۔ مذہبی علم رکھنے والا۔
 دھرم کیتی کہنا۔ (۱۰-۱) محاورہ) ایمان سے کہنا۔
 دھرم اصول۔ (۱۰-۱) مذ) اصول دین۔
 دھرم یدھ۔ (۱۰-۱) مٹ) مذہبی جنگ۔
 دھرم دھرمی۔ (دھرم۔ ما۔ دھرم۔ می) (۱۰-۱) مذ) ۱) تھامسی (۲) ہمد۔ بیجان۔
 دھرمی۔ (دھرم۔ می) ۱) صفت) ۱) قانون کی پابندی کرنے والا (۲) نیک (۳) متقی۔ پرہیزگار (۴) مقدس۔ پاک۔ پوتر۔
 دھرن۔ (دھرم۔ زن) ۱) مٹ) ۱) زمین (۲) پتھر دان۔ رقم (۳) ناف۔ (۴) پتھر (۵) آواز کا آواز پڑھاؤ۔
 دھرن ٹٹنا۔ (۱۰-۱) محاورہ) ناف کا اپنی جگہ سے ہٹ جانا۔
 دھرننا۔ (دھرم۔ نا) ۱) مٹ) ۱) رکھنا۔ جمانا۔ ٹکانا۔ قائم کرنا (۲) امانت رکھنا (۳) دین کرنا۔ نمانت میں دینا (۴) قبض کرنا۔ گرفتار کرنا (۵) حاصل کر لینا (۶) غور سے سننا۔ کسی کام میں دل لگانا (۷) بہتان لگانا (۸) نام

دھنا۔ (۱۰-۱) کسی جگہ زبردستی بٹھ جانا۔
 دھرننا (دیننا) دے کر بیٹھنا۔ (۱-۱) محاورہ) جم کر بیٹھنا۔ مضبوط ارادہ کر کے بیٹھنا۔
 دھرن پار۔ (دھرم۔ زن) ۱) صفت) دھرنے والا۔
 دھروا دیننا۔ (دھرم۔ وا۔ دے۔ نا) ۱) مٹ) ۱) رکھنا۔ دیننا۔ گرفتار کر دینا۔
 دھروانا۔ (دھرم۔ وا۔ نا) ۱) مٹ) ۱) رکھنا۔ پکڑ دانا۔
 دھروٹ۔ (دھرم۔ روٹ) ۱) صفت) ۱) مٹ) پگھی۔
 دھری۔ (دھرم۔ ری) (۱۰-۱) مٹ) ۱) عمود (۲) لہجے کی وہ سلاخ جس پر پتہ ٹھوتا ہے۔
 دھڑ۔ (۱۰-۱) مذ) ۱) بدن۔ جسم (۲) بدن کا لامرکا حصہ (۳) طرف۔ جانب (۴) ایک قسم کا ڈھول (۵) پہلو۔ چہرہ (۶) جماعت۔ فریق (۷) گرنے کی آواز (۸) پتھر کی آواز (صفت) (۹) مضبوط۔ پکاوا (۱۰) آواز (۱۱) دھڑ توڑ۔ (۱۰-۱) مذ) کشتی کا ایک داؤ۔
 دھڑ بھو کو لڑانا۔ (۱-۱) محاورہ) سوچنا۔ غور کرنا۔ فکر کرنا۔
 دھڑ دھڑ۔ (۱۰-۱) صفت) شور یا کھڑکھڑاہٹ (۲) دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز (۳) آگ جلنے کی آواز (۴) کا پٹنا۔ پھرتانا (۵) زور سے۔ تیزی سے۔ شور کے ساتھ۔
 دھڑ دھڑ جھلنا۔ (۱۰-۱) محاورہ) بہت تیزی سے جھلنا۔ اس طرح جھلنا کہ شعلوں سے آواز نکلے۔
 دھڑ دھڑ رہنا۔ (۱-۱) محاورہ) دھڑکنا۔ پھڑکنا۔ پھڑپھڑانا۔
 دھڑ دھڑ کا پٹنا۔ (۱-۱) محاورہ) بہت کا پٹنا۔ پھرتانا۔
 دھڑ دھڑ کرنا۔ (۱-۱) محاورہ) ۱) زور سے دروازہ کھٹکھٹانا (۲) ڈھول بجانا۔
 دھڑ رہ جانا۔ (۱-۱) محاورہ) جسم کا حرکت نہ کر سکا۔ نالچ ہونا۔
 دھڑ سے گرتا۔ (۱-۱) محاورہ) کسی بیماری چیز کا زور سے گرتا۔
 دھڑ کے اندر لینا۔ (۱-۱) محاورہ) ہنم کر لینا۔
 دھڑ میں پڑنا۔ (۱-۱) محاورہ) پیٹ میں جانا۔
 دھڑا۔ (دھرم۔ را) ۱) مذ) ۱) وزن۔ بوجھ (۲) پانچ سیر کا وزن (۳) پانگ۔ برابر کرنے کا وزن (۴) جماعت۔ فریق۔
 دھڑا اٹھانا۔ (۱-۱) محاورہ) توننا۔ وزن کرنا۔
 دھڑا بانڈھنا۔ (۱-۱) محاورہ) ۱) پانگ سے کسی چیز کا وزن برابر کرنا۔ (۲) گروہ بندی کرنا۔ کسی کی جانب داری کرنا۔
 دھڑا بندی۔ (۱-۱) مٹ) ۱) گروہ بندی۔ جانب داری۔
 دھڑا دھڑ۔ (۱-۱) صفت) ۱) کسی چیز کے برابر کرنے کی آواز۔ ماتم کی آواز۔ پتھروں اور مکانوں کے گرنے کی آواز (۲) بے دریغ۔ متواتر۔
 دھڑا دھڑی۔ (۱-۱) مٹ) ۱) توپوں بندوقوں کی آواز۔ دھماکا (۲) سب مال لوٹ لینا۔
 دھڑا دھڑی بکنا۔ (۱-۱) محاورہ) کثرت سے بکنا۔
 دھڑا دھڑی کا ماتم۔ (۱-۱) مذ) سخت ماتم جس میں سینہ کوئی بہت ہو۔ دھڑ سے بندھ جانا۔ (۱-۱) محاورہ) ۱) دو روہ یا فرتیق ہو جانا (۲) بگاڑنا۔

نفاق ہوجانا۔

دھڑا کا۔ (دھڑ۔ ڈل۔ کا)۔ (۱) مذ۔ (۲) زور کی آواز۔ دھکا کا (۲) حملے کا زور۔
ڑان کا شور (۳) جوش۔ تیزی۔

دھڑا کے سے۔ جلدی سے۔ پھرتی سے۔ تیزی سے۔

دھڑام۔ (دھ۔ ڈام)۔ (۱) امت [بھاری چیز کے زمین یا پانی میں گرنے کی آواز۔

دھڑام سے۔ (۲) زور سے۔ آواز کے ساتھ۔

دھڑ دھڑانا۔ (دھڑ۔ دھ۔ ڈا۔ نا)۔ (۱) [مض] (۲) دروازہ کھٹکھٹانا (۲)
ڈھول بجانا (۳) کسی چیز پر کوئی چیز مار کر آواز نکالنا (۴) پھڑکنا۔

دھڑلنا۔ پھڑ پھڑانا۔

دھڑل۔ (دھ۔ ڈل)۔ (۱) [مض] (۲) پھڑک۔ بے چینی (۳) خوف۔ ڈر۔

دھڑل کا۔ (دھڑ۔ کا)۔ (۱) [مض] (۲) خوف۔ ڈر (۳) دل کی دھڑکن (۴) زور کی
آواز۔ دھکا۔ کرک (۵) دھکا۔

دھڑ کا دینا۔ (۱) [مض] (۲) ڈرانا۔ ڈرلانا۔

دھڑ کا رہنا۔ (۱) [مض] (۲) خوف ہونا۔ کھٹکا ہونا۔

دھڑ کا لگا رہنا۔ (۱) [مض] (۲) ہر وقت خوف ہونا۔ کھٹکا ہونا۔

دھڑکوں میں جان دینا۔ (۱) [مض] (۲) ہر وقت خوف رہنا۔

دھڑکنا۔ (دھڑ۔ کنا)۔ (۱) [مض] (۲) ڈرانا۔ خوف ڈلانا (۲)
رعب ڈلانا۔

دھڑکن۔ (دھڑ۔ کن)۔ (۱) [مض] (۲) بول۔ امتحان۔ بے چینی۔
بے قراری۔ خوف۔

دھڑکنا۔ (دھ۔ ڈک۔ نا)۔ (۱) [مض] (۲) خوف کھانا۔ ڈرنا۔ ڈہلنا (۲)
بے قرار ہونا (۳) جلنا (۴) غصے یا جوش میں ہونا۔

دھڑلا۔ (دھ۔ ڈل۔ لا)۔ (۱) [مض] (۲) شان و شوکت۔ رعب داب۔

دھڑلنا۔ (۱) [مض] (۲) جوش۔ پھیر (۳) زور۔ بہادری۔

دھڑلنے سے۔ (۱) [مض] (۲) زور سے۔ اعلان۔ بے باکانہ۔

دھڑلنے کا۔ (۱) [مض] (۲) زور۔ زور شور۔

دھڑی۔ (دھ۔ ڈی)۔ (۱) [مض] (۲) ایک وزن جو عموماً پانچ سیر کا
ہوتا ہے۔ (۳) کیر۔ مٹی کی تہہ جو عورتیں ہونٹوں پر جاتی ہیں۔

(۴) کپڑے کا کنارہ یا بھار۔

دھڑی اڑھانا۔ (۱) [مض] (۲) مٹی کی تہہ کا زایل ہونا۔

دھڑی بھڑنا۔ (۱) [مض] (۲) ٹوٹنا۔

دھڑی جینا۔ (۱) [مض] (۲) ہونٹوں پر مٹی کی تہہ جینا۔

دھڑی دھڑی کر کے لوٹنا۔ (۱) [مض] (۲) [مض] (۳) کچھ نہ چھوڑنا۔
دھڑیلوں۔ (۱) [مض] (۲) بہت۔ کثرت۔ افراط۔

دھڑس۔ (۱) [مض] (۲) دریا کے کنارے یا پہاڑ کی ڈھلوان (۳) کوئی ڈھلوان
جگہ (۴) قلعہ۔ پشتہ (۵) ریت کا اونچا میدان۔

دھڑس بنانا۔ (۱) [مض] (۲) پشتہ بنانا۔ ٹپٹی پڑھنا۔

دھڑسنا۔ (دھڑس۔ سا)۔ (۱) [مض] (۲) موٹی اون کی چادر۔

دھڑسان۔ (دھ۔ سان)۔ (۱) [مض] (۲) دل۔ دل۔ پھرد۔

دھسانا۔ (دھ۔ سا۔ نا)۔ (۱) [مض] (۲) بھڑنا۔ ٹھونسا (۳) دلدل میں
بھینسانا۔

دھساؤ۔ (دھ۔ سا۔ او)۔ (۱) [مض] (۲) دلدل (۳) نشیبی زمین۔

دھسک۔ (دھ۔ اسک)۔ (۱) [مض] (۲) خیف کھانی (۳) دھسا۔ بیٹھ جانا۔

دھسک جانا۔ (۱) [مض] (۲) دیوار کا پھٹ جانا۔

دھسکا۔ (دھس۔ کا)۔ (۱) [مض] (۲) کھانی۔

دھسکنا۔ (دھ۔ سک۔ نا)۔ (۱) [مض] (۲) بیٹھ جانا۔ دھس جانا۔ گر جانا۔

اپنی جگہ سے ہٹ جانا (۳) کھانا (۴) داخل ہونا۔ کھنا۔

دھسنا۔ (دھس۔ نا)۔ (۱) [مض] (۲) کھنا۔ کھس جانا۔ دلدل میں پھینسا۔

دھک۔ (دھ۔ صف)۔ (۱) [مض] (۲) حیران۔ متحیر (۳) صدمہ۔ خوف۔ ڈر
(۴) چوٹی جو ک۔ بیکہ (۵) آگ۔ شعلہ (ق)

دھک رہنا۔ (۱) [مض] (۲) حیران رہنا۔ دگ رہنا (ق)

دھک سے رہ جانا۔ (۱) [مض] (۲) حیران رہ جانا۔ بھونچکا رہ جانا۔

دھک۔ (دھ۔ اس)۔ (۱) [مض] (۲) لعنت۔ پھٹکار (۳) سراپ۔ بددعا (۴)
شرم۔ حیا۔

دھک کرنا۔ (۱) [مض] (۲) ملامت کرنا۔ تینبہ کرنا۔ لعنت کرنا۔ بددعا دینا۔

دھکا۔ (دھک۔ کا)۔ (۱) [مض] (۲) صدمہ (۳) ریل (۴) آفت۔ بلا (۵)
عادت۔ نگر (۶) ضرر۔ ٹوٹا (۷) بھولنا۔

دھکا پڑنا۔ (۱) [مض] (۲) صدمہ پھینسا۔ بھولا پڑنا۔

دھکا پیل۔ (دھکا۔ پیل)۔ (۱) [مض] (۲) دھکم۔ دھکا۔ ریل پیل۔ جوم میں
بہت۔ دھکے لگنا۔

دھکا دھکی۔ (۱) [مض] (۲) دھکا پیل۔ جوم میں (۳) دھکا دھکے لگنا۔

دھکا دینا۔ (۱) [مض] (۲) بھولا دینا۔ دھکنا (۳) صدمہ پھینانا۔

دھکا شیطاں کا۔ (۱) [مض] (۲) شیطاں کا دروغ کرنا۔ شیطاں کی مار۔

دھکا لگنا۔ (۱) [مض] (۲) نقصان ہونا۔ صدمہ پھینسا۔ مصیبت آنا۔ آفت آنا۔

دھکے دینا۔ (۱) [مض] (۲) گردن سے کپڑا کرنا۔ دینا (۳) بھولنے دینا۔

دھکے کھانا۔ (۱) [مض] (۲) مارا مارا پھرنانا۔

دھکار۔ (دھک۔ کار)۔ (۱) [مض] (۲) لعنت۔ پھٹکار (۳) سراپ۔
بددعا (۴) نفرت۔ حقارت۔ ملامت۔ زبرد توینج۔

دھکار دینا۔ (۱) [مض] (۲) لعنت کرنا۔

دھک۔ (دھک۔ ڈھ)۔ (۱) [مض] (۲) دل کی دھڑکن۔ گھبراہٹ۔ بے چینی۔

دھک دھکا۔ (۱) [مض] (۲) امتحان۔ قلب۔ دل کی دھڑکن۔

دھک دھکی۔ (۱) [مض] (۲) سوچ۔ غور۔ فکر (۳) دل کی دھڑکن۔

دھک دھکانا۔ (دھک۔ دھ۔ نا)۔ (۱) [مض] (۲) تیز چلنا۔ چمکنا۔

دھک دھکانا۔ (۱) [مض] (۲) دھکنا۔ دھکنا۔ (۳) گھرانہ۔ بے چین ہونا۔

دھک دھکی۔ (دھک۔ ڈھ۔ کی)۔ (۱) [مض] (۲) گلے کے نیچے کا گڑھا۔

(۳) گلے کا ایک زبور۔

دھک دھکی میں دم ہونا۔ (۱) [مض] (۲) نزع کی حالت ہونا۔ دم توڑنا۔

دھکا دھکا۔ (دھک۔ ڈھ۔ ک۔ ڈھ)۔ (۱) [مض] (۲) پس دینا۔ تذبذب۔

امید دینا۔ (۱) [مض] (۲) دھڑکن۔ بے قراری۔

دھکم دھکا۔ (دھک۔ کم۔ دھک۔ کا) (دہ۔ ا۔ مذ) دھکے پہ دھکا۔ دھکا پیل۔
 ریلا پیل۔
 دھکے کھاتے پھرنا۔ (ا۔ می۔ درہ) مارے مارے پھرنا۔
 دھکنا۔ (دھک۔ یا۔ نا) (دہ۔ مص) دھکا دینا۔ ریلنا۔
 دھکیل۔ (دھ۔ کیل) (دہ۔ ا۔ مذ) دھکا۔ صدمہ۔
 دھکیلنا۔ (دھ۔ کیل۔ نا) (دہ۔ مص) دھکا دینا۔ ریلنا۔ پیلنا۔
 دھکتیلو۔ (دھ۔ کے۔ ٹو) (ا۔ مذ) (ا) دھکا (۲) دھکا دینے والا (۳)
 آشنا۔ یار۔
 دھکیلوان۔ (دھ۔ کیل۔ وال) (دہ۔ تابع فعل) (ا) دھکا دیتے ہوئے۔
 (۲) انفرادی سے۔ بہتات سے۔ بہت۔
 دھکدھکی۔ (دھک۔ دھکی) (دھک۔ گ) (دہ۔ ا۔ مٹ) (ا) دھکدھکی
 (۲) خوردنکر (۳) گے کا ایک زبور۔
 دھکڑا۔ (دھک۔ را) (دہ۔ ا۔ مذ) (ا) شوہر۔ خاوند (۲) یار۔ آشنا (۳)
 زن خاشترے ناچار تعلق رکھنے والا۔
 دھکی۔ (دھ۔ گ) (دہ۔ ا۔ مٹ) (ا) آتش زن۔ آگ لگانے والا۔
 دھلانا۔ (دھ۔ لا۔ نا) (دہ۔ مص) کپڑے یا کسی شے کو پانی سے صاف کرنا۔
 دھلنا۔ (ا۔ مص) (دھو یا جانا۔ پانی سے کپڑے یا کسی اور شے کا صاف
 کیا جانا۔
 دھلانی۔ (دھ۔ لا۔ ای) (دہ۔ ا۔ مٹ) (ا) کپڑے یا کسی دوسری شے کے
 دھلانے کی اُجرت۔
 دھل وھل۔ (دہ۔ مص) زور سے بننے والا۔
 دھلوانا۔ (دھل۔ نا۔ نا) (دہ۔ مص) صاف کرنا۔
 دھلوانی۔ (دھل۔ وا۔ ای) (دہ۔ ا۔ مٹ) (ا) کپڑے دھلوانے کی اُجرت۔
 دھلے دھلائے۔ (ا۔ مص) دھوئے ہوئے۔ صاف کیے ہوئے۔
 دھیلنڈی۔ (دھ۔ لیں۔ ڈی) (دہ۔ ا۔ مٹ) (ا) چیت کا پہلا دن جب
 لوگ ایک دوسرے پر دھول پھینکتے ہیں (۲) ہولی کا دوسرا دن۔
 دھم۔ (دہ۔ ا۔ مٹ) (دھوم۔
 دھم۔ (دہ۔ ا۔ مٹ) (ا) آواز۔ شور۔ زور کی آواز۔ دھول کی آواز۔ گرنے
 یا گونڈنے کی آواز (۲) پھونک مارنے والا (۲) پھلنے والا
 (۲) چاند۔
 دھم دھم۔ (ا۔ صوت) (ا) زور سے زمین پر مارنے کی آواز (۲) دھول
 کی آواز۔
 دھم دھمانا۔ (دہ۔ مص) (ا) پاؤں کو کھوکھلی زمین پر مار کر آواز نکالنا۔
 (۲) دھول بھانا (۳) دروازے پر ہاتھ مارنا۔
 دھم دھما ہٹا۔ (ا۔ صوت۔ مٹ) سر کے اوپر کوئی آواز۔
 دھم سے۔ (ا) (۱) زور کی آواز کے ساتھ۔ شور کرتے ہوئے۔
 (۲) بیکایک۔ فوراً۔
 دھم سے آمو جو ہونا۔ (ا۔ محاورہ) فوراً آجانا۔
 دھم سے گوننا۔ (ا۔ محاورہ) زور سے یا آواز کے ساتھ گوننا۔
 دھما چو اگڑی۔ (دھ۔ ما۔ چوک۔ ڈی) (دہ۔ ا۔ مٹ) (ا) شور وغل۔ ہنساگر

گود پھاند۔
 دھما دھم۔ (دھ۔ ما۔ دھم) (دہ۔ ا۔ مٹ) متواتر زور کی آواز۔
 دھما کا۔ (دھ۔ ما۔ کا) (دہ۔ ا۔ مذ) (ا) گرنے یا گونڈنے کی آواز (۲) توپ۔
 پٹانے یا بم کی آواز (۳) دروازہ گرنے کی آواز (۴) زور
 کا طہانچہ (۵) ایک قسم کی توپ جو ہاتھیوں پر لادی جاتی تھی۔
 (۶) پتھر۔ بندوق۔
 دھما کو۔ (دھ۔ نا۔ کو) (دہ۔ مص) (ا) دھماکے سے پھٹنے والا (۲)
 آتش گیر مادہ۔
 دھمال۔ (دھ۔ مال) (دہ۔ ا۔ مٹ) (ا) اُچھل۔ کود۔ شور وغل۔ دھما چوڑی
 (۲) ایک قسم کا راگ۔ (دھیلنڈی کے دن کا راگ (۳) قلدندوں اور
 فیتروں کا ایک رقص (صفت) (۴) موٹا۔ ہٹا کٹا۔
 دھمالیا۔ (ا۔ صفت) دھمال کھیلنے والا۔
 دھمپال۔ (دھم۔ پال) (دہ۔ مص) (ا) بہت موٹا۔
 دھمک۔ (دھ۔ تک) (دہ۔ ا۔ مٹ) (ا) آہٹ (۲) پاؤں کی آواز (۳)
 صدمہ جو سخت آواز سے دماغ کو پہنچے (۴) ہٹکا درد ستر۔ ٹیس۔
 (۵) دھڑکن (۶) گرم ہوا (۷) چمک (۸) دھمکی۔ خوف (۹) زمین
 کی ناہمواری۔
 دھمکانا۔ (دھم۔ کا۔ نا) (دہ۔ مص) (ا) ڈرانا۔ خوف دلانا۔ ڈرانا۔
 دھمکنا۔ (دھ۔ تک۔ نا) (دہ۔ مص) (ا) خیف درد ستر ہونا (۲) کوئی چیز
 کوٹنا (۳) بیکایک کہیں پہنچ جانا۔
 دھمکی۔ (دھم۔ کی) (دہ۔ ا۔ مٹ) (ا) خوف۔ ڈر (۲) گھر کی۔
 دھمکی میں آنا۔ (ا۔ محاورہ) ڈرجانا۔ رعب مان جانا۔
 دھملا۔ (دھم۔ لا) (دہ۔ مص) (ا) دھند۔ غبار آلود۔ تاریک۔
 دھموکا۔ (دھ۔ مو۔ کا) (دہ۔ ا۔ مذ) (ا) مکا۔ گھونا (۲) ایک قسم کا دف۔
 دھمن۔ (دہ۔ ا۔ مذ) (ا) مال۔ دولت۔ جائداد (۲) قسمت (۳) مظہر البرج
 کا نواب بروج (۴) عورت۔ محبوب (رق)
 دھن آگن۔ (دہ۔ ا۔ مذ) (دہ۔ مص) (ا) دھنوں میں لگانے سے پوشیدہ
 خوانے نظر آئیں۔
 دھن باو۔ (دہ۔ ا۔ مٹ) (ا) شکر یہ (۲) تعریف۔ حمد۔
 دھن بھاگ۔ (دھ۔ بھاگ) (دہ۔ مص) (ا) خوش قسمتی۔ خوش نصیبی۔
 دھنپال۔ (ا۔ مص) (ق) (ا) شہوت پرست (۲) عورتوں کا شیدائی۔
 دھن پسانی۔ (ا۔ مص) (ق) (ا) جو دولت کے خیال میں مست رہے۔
 دھن دولت چلتی پھرتی چھاؤں ہے۔ (ا۔ مٹ) (ا) دولت کا کوئی
 بھروسہ نہیں۔ آج ہے تو کل نہیں۔
 دھن ماننا۔ (دہ۔ محاورہ) شکر یہ ادا کرنا۔ شکر گزار ہونا۔
 دھن دان۔ (دہ۔ مص) (دہ۔ مص) (ا) دولت مند۔ امیر۔
 دھن ہے۔ (دہ۔ محاورہ) (ا) آفرین ہے شاہنشاہ (۲) طنز۔ یہ کیا
 کیا۔ کام خراب کر دیا۔
 دھن۔ (دہ۔ ا۔ مٹ) (ا) دھیان۔ خیال (۲) شوق۔ سرگرمی (۳) عادت۔
 (۴) خواہش (۵) گانے کی طرز (۶) گے (۷) گھبراہٹ (۸) تیز درد۔

دھنکا - (دھن - گانگ) (رق - صفت) قوی ہیکل -
 دھنگار - (دھ - بھکار -
 دھنگاتا - (دھن - گانگ) (نا - رت) - (مٹ) چہل پہل -
 دھنگر - (دھن - گر) (رق) - (۱) دھجروا - ٹھوسی -
 دھننا - (دھن - نا) (دھ - مص) مارنا پیٹنا - تپہ نہ کرنا - دلیل کرنا - بہت سوچنا
 کوشش کرنا - (۲) روٹی دھکننا -
 دھنور - (دھن - وار) (رق - صفت) سیاہ -
 دھنی - (دھ - نی) (دھ - صفت) (۱) خوش قسمت - صاحب نصیب - دولت مند -
 (۲) آقا - مالک -
 دھنیا - (دھن - یا) (دھ - ۱) (دھ) ایک خوشبودار پودا جس کے پتے اور بیج
 کوٹ کر سالن میں ڈالے جاتے ہیں - کشنیز -
 دھنیا - (دھن - یا) (دھ - ۱) (دھ) روٹی دھکنے والا -
 دھنیس - (دھ - نیس) (دھ - ۱) (دھ) ایک بڑی چوچ کا پرندہ -
 دھنیلا - (دھ - نئے) (لا) (رق) دھن والا -
 دھنیٹہ - (دھن - ن - ہی) (س - صفت) (۱) دولت لانے والا (۲) نیک -
 مبارک - اچھا - خوش نصیب (۳) پرہیزگار (۴) شہباز - سرجا -
 دھنیہ کہنا - (دھ - محاورہ) دھادیٹا - برکت ماننا -
 دھنیہ ماننا - (دھ - محاورہ) شکر یہ ادا کرنا -
 دھنیہ واہ - (دھ - ۱) (دھ) (۱) شکر یہ (۲) تعریف - حمد -
 دھواں - (دھواں - آں) (دھ - ۱) (دھ) دھان - دود - وہ بخارات جو کسی چیز
 کے جلنے سے پیدا ہوتے ہیں -
 دھواں اٹھنا - (دھ - محاورہ) (۱) دھواں پیدا ہونا یا بلند ہونا - دھواں
 نکلنا (۲) آہ نکلنا -
 دھواں اڑنا - (دھ - محاورہ) تباہ ہونا - برباد ہونا -
 دھواں بھیر دینا - (دھ - محاورہ) (۱) شکست دینا (۲) شہزادہ بکھیر دینا -
 دھواں پھیلنا - (دھ - محاورہ) کسی جگہ کا دھوئیں سے بھر جانا -
 دھواں جانا - (دھ - محاورہ) کھانے میں دھوئیں کی بو پیدا ہونا -
 دھواں چھوڑنا - (دھ - محاورہ) (۱) اجنبی کا دھواں نکلنا (۲) حقہ پی کر
 منہ سے دھواں نکلنا -
 دھواں دھار - (دھ - صفت) (۱) پرجوش (۲) ہنایت سیاہ - تیرہ تار (۳)
 دھوئیں سے بھرا ہوا - دھوئیں کا بادل - ہنایت غلیظ بادل -
 دھواں دھار برسنا - (دھ - محاورہ) سخت بارش ہونا -
 دھواں دھار تقریر کرنا - (دھ - محاورہ) پرجوش تقریر -
 دھواں دھار گھٹنا - (دھ - صفت) کالی گھٹنا -
 دھواں دھار ہو جانا - (دھ - محاورہ) سخت اندھیرا ہو جانا -
 دھواں کرنا - (دھ - محاورہ) کوئی چیز جلانا جس سے دھواں پھیل جائے -
 دھواں کپش - (دھ - ۱) دھوئیں کے نکلنے کی جگہ - جمنی - دودکش -
 دھواں کھٹنا - (دھ - ۱) دھوئیں کا کسی بند مکان میں جمع ہو جانا -
 دھواں لپک - (دھ - ۱) (دھ) بہت حقہ پینے والا - وہ جو حقے کی بو پر دوڑتا
 جائے (۲) حریص - لالچی -

دھن بانڈھنا - (۱) محاورہ) خیال بنانا - تصور کرنا -
 دھن سنانا - (دھ - محاورہ) خیال بندھنا -
 دھن کا پیکا - (دھ - ۱) (دھ) وہ شخص جو کسی خیال یا بات کے پیچھے لگ جائے -
 دھن لگنا - (دھ - محاورہ) (۱) دھان لگنا (۲) دھت ہونا -
 دھن ہونا - (دھ - محاورہ) (۱) شوق ہونا (۲) خیال ہونا -
 دھننا - (دھن - نا) (دھ - ۱) (دھ) روٹی دھکنے والا - دھنی - مذاق -
 دھنا سمری - (دھ - نا - سی - ری) (دھ - ۱) (مٹ) (۱) ایک راگنی کا نام -
 (۲) تھپڑ یا ضرب (۳) کسی کا ایک دائرہ -
 دھنا سیٹھ - (دھن - نا - سیٹھ) (دھ - ۱) (دھ) (۱) ہنایت دولت مند - امیر -
 (۲) مفید - شہر - بر - سرکش -
 دھند - (دھ - ۱) (مٹ) (۱) گہر - بخار (۲) اندھیرا (۳) منصف - بصارت (۴)
 ابراؤ موسم (۵) طوفان خاک -
 دھند کا پساہ - (دھ - ۱) (دھ) اندھیر کی جگہ - دینا -
 دھند کار - (دھ - ۱) (دھ) اندھیرا -
 دھند ہونا - (دھ - محاورہ) (۱) اندھیرا ہونا (۲) مدہوش ہونا -
 دھند - (رق - صفت) دھت - شراب کے نشے میں پور -
 دھندا - (دھن - دا) (دھ - ۱) (دھ) (۱) کام - کاروبار (۲) مصروفیت -
 (۳) پیشہ - ہنجر -
 دھندلا - (دھندلا - لا) (دھ - ۱) (دھ) دھوکا - فریب - جیلد -
 دھندلا - (دھندلا - لا) (دھ - صفت) (۱) تاریک - اندھیرا (۲) ناصاف - گدلا -
 دھندلا پن - (دھ - نا) (دھ) اندھیرا تاریکی (۲) گدلا پن - گہرا سا عالم -
 دھندلا دکھائی دینا - (دھ - محاورہ) صاف نظر نہ آنا - کم نظر آنا -
 دھندلانا - (دھندلا - نا) (دھ - مص) دھاندلی کرنا - دھوکا کرنا -
 دھندلا ہٹ - (دھندلا - ہٹ) (دھ - ۱) (مٹ) تاریکی - اندھیرا -
 دھندلا لکا - (دھواں - دل - کا) (دھ - ۱) (دھ) عمل الصباح - نور کا تزکا -
 شام کا وقت -
 دھندھیل - (دھن - دھ - لا) (دھ - ۱) (دھ) دھوکے باز - مکار -
 دھننا - (دھن - نا) (دھ - مص) (۱) گھٹنا - گھس جانا (۲) دل دل
 میں پھیننا -
 دھنک - (دھ - نیک) (دھ - ۱) (مٹ) (۱) گمان - قوس (۲) قوس قزح
 (۳) پتلا لیس - گولا (۴) ایک قسم کی اڑھنی (۵) کشیدے کا کام -
 دھنک دھاری - (دھ - صفت) گماندار - تیروکان سے مسخ آدمی -
 دھنکار - (دھن - کار) (دھ - ۱) (مٹ) شور - گرج - دھکا -
 دھنکارنا - (دھن - کار - نا) (دھ - مص) (۱) دھارنا - چکھاڑنا - ڈکارنا -
 (۲) شکار کرنا - گرجنا -
 دھنکنا - (دھ - نیک - نا) (دھ - مص) (۱) روٹی صاف کرنا (۲) خوب ماننا
 (۳) حبیب آواز نکلنا - گرجنا -
 دھنکوانا - (دھ - نیک - دا - نا) (دھ - ۱) (مٹ) دھنکنے کی اجرت -
 دھنکلی - (دھن - کی) (دھ - ۱) (مٹ) روٹی دھنکنے کی آواز -
 دھنکیا - (دھ - نیک - یا) (دھ - ۱) (دھ) روٹی دھنکنے کا پیشہ کرنے والا -

دھواں نکلنا - (۱- محاورہ) چلنا سگنا - دھواں اٹھنا۔
 دھواں ہو جانا - (۱- محاورہ) (۱) بھاپ بن کر اڑ جانا (۲) رنگ کالا ہو جانا۔
 دھواں ہونا - (۱- محاورہ) دھوئیں کا پیدا ہونا۔
 دھوئیں اڑانا - (۱- محاورہ) (۱) جلا کر خاک سیاہ کر دینا (۲) دھبیاں اڑانا۔
 دھوئیں بھرنے - (۱) تباہ کرنا (۲) لتاڑنا۔
 دھوئیں باقی کا شربک - (۱- مذ) ہمایہ - پڑوسی۔
 دھوئیں تھے بادل اڑانا - (۱) تھتھے یا سگرٹ کاکش لگا کر منے سے بہت سا دھواں نکلانا (۲) بے سرو پا خبریں مشہور کرنا۔
 دھواں سا - (دھو - وال - سا) (۱- صفت) جس میں دھواں اثر کر گیا ہو۔
 دھوانا - (دھو - آنا) (۱) کھانے میں دھوئیں کی بو اُجھانا (۲) دھوئیں کی سیاہی جم جانا۔
 دھوپ - (۱- مذ) دھونا - شوب۔
 دھوپن - (دھو - بن) (۱- مذ) (۱) پڑے دھونے والی عورت۔
 دھوپ کی بیوی (۲) ایک قسم کا پرند۔
 دھوپنی - (دھو - بنی) (۱- مذ) پڑے دھونے والا۔
 دھوپنی پاٹ - دھوپنی پیٹا - (۱- مذ) (۱) وہ سب یا نکلڑی کا تختہ جس پر دھوپنی پڑے دھوتے ہیں (۲) گشت کا ایک داڑن۔
 دھوپنی پر بس نہ چلا گدھیا کے کان مروڑے (ایٹھے) - (۱) (شل) زبردست سے بس نہیں چلنا۔ کمزور کو دباتے ہیں۔
 دھوپنی کا پھیلا آدھا آدھا میللا - (۱) (شل) عزیزوں کا لباس موزوں نہیں ہوتا۔
 دھوپنی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا - (شل) جس کا کوئی ٹھکانا نہ ہو۔
 نکا اور بیکار آدمی - نہ اُدھر کا نہ اُدھر کا۔
 دھوپنی گھر پر پڑے پورم (۱- شل) دوسرے کا مال لٹانے وہ نہ لٹ لٹے اور (۱) دالے کو کہتے ہیں۔
 دھوپ - (۱- مذ) (۱) سورج کی تیز روشنی (۲) ایک قسم کی خوشبو۔
 دھوپ آنا - (۱- محاورہ) دھوپ پہنچنا۔ سورج کا سامنے آ جانا۔
 دھوپ اترنا - (۱- محاورہ) (۱) دھوپ کا کسی بلند جگہ سے پینے آنا۔
 (۲) دھوپ کی تیزی کم ہونا۔
 دھوپ اٹھانا - (۱- محاورہ) (۱) تکلیف برداشت کرنا (۲) دھوپ میں سفر کرنا۔
 دھوپ اداں ہونا - (۱- محاورہ) دھوپ کی تیزی کم ہونا۔
 دھوپ بڑنا - (۱- محاورہ) گرمی ہونا سخت دھوپ ہونا۔
 دھوپ پھیلنا - (۱- محاورہ) سورج کی روشنی پھیلنا۔
 دھوپ ٹلنا - (۱- محاورہ) دھوپ کا کسی جگہ سے ہٹ جانا۔
 دھوپ جلانا - (۱- محاورہ) خوشبو جلانا۔
 دھوپ پڑھنا - (۱- محاورہ) (۱) دن پڑھنا (۲) دھوپ کا کسی بلند مقام پر پہنچ جانا۔
 دھوپ پڑھے - (۱) دن پڑھے۔

دھوپ جھاؤں - (۱- مذ) (۱) ایک قسم کا ریشمی کپڑا جس میں دورنگ لے ہوئے ہوتے ہیں۔ انڈھیرا اُجالا۔
 دھوپ چھینا - (۱- محاورہ) شام ہونا۔ بادل گھر آنا۔
 دھوپ چھوڑنا - (۱- محاورہ) سورج کے اُگنے سے ہٹ جانا۔
 دھوپ بڑنے دینا۔
 دھوپ دان - دھوپ دانہ - (۱- مذ) (۱) (۱) وہ برتن جس میں دھوپ یا خوشبو دار چیزیں ڈال کر جلاتے ہیں۔
 دھوپ دکھانا - دھوپ دینا - (۱- محاورہ) کسی چیز کو دھوپ میں رکھ کر دکھانا۔
 دھوپ ڈھل جانا - (۱- محاورہ) زوال آفتاب ہونا۔
 دھوپ سہنا - (۱- محاورہ) دھوپ میں کام کرنا۔ دھوپ برداشت کرنا۔
 دھوپ کھانا - (۱- محاورہ) (۱) دھوپ میں بیٹھا رہنا۔ دھوپ میں گرمی برداشت کرنا (۲) کسی چیز کو دھوپ لگانا۔
 دھوپ کھلنا - (۱- محاورہ) دھوپ پھیلنا۔
 دھوپ گھڑی - ایک آکر جس پر دھوپ پڑے تو مختلف نشانات مختلف اوقات ظاہر کرتے ہیں۔ یہ گھڑی مقامی وقت بتلاتی ہے۔
 دھوپ لگنا - (۱- محاورہ) دھوپ کا اثر ہونا۔
 دھوپ لینا - (۱- محاورہ) (۱) دھوپ کھانا (۲) دھوپ کا اثر حاصل کرنا۔
 دھوپ میں بال سفید کرنا - (۱- محاورہ) بڑھاپے تک نا تجربہ کار رہنا۔
 دھوپ نکلنا - (۱- محاورہ) (۱) سورج چڑھنا (۲) سورج کا بادلوں میں سے نکلنا (۳) روشنی پھیلنا۔
 دھوپت - (۱- مذ) (۱) گتے کو بیٹھے کی آواز۔ دور۔ بھاگ۔ ہٹ۔
 دھوپتر - (۱- مذ) (۱) ایک قسم کا موٹا اور چمدا ٹیلا۔
 دھوپتو - (دھو - تو) (۱- مذ) (۱) بھگ۔ ٹرنی۔ ٹرسنگا۔ بھگ کی آواز۔
 دھوپتو بیک - موٹا۔ چھپٹا آدمی۔
 دھوپتی - (دھو - تی) (۱- مذ) (۱) ہاریک لبا کپڑا جو کر سے باندھا جائے (۲) نگلی۔
 دھوپتی پر شاد - (۱) ہندوؤں کو حقارت سے کہتے ہیں (۲) بنیا بقال۔
 دھوپتی میں سب ننگے - (شل) اندرونی حالت سب کی ایک جیسی ہے۔
 دھور - (۱- مذ) (۱) دھول (۲) ایک بسوٹے کا بیسواں حصہ۔ ایک قسم کی ناقص گھاس۔
 دھورا - (دھو - را) (۱- مذ) (۱) دھرا۔ دھوکہ۔ دغا (۲) پسپ ہوئی دوا جو کسی زخم وغیرہ پر چھڑکی جائے۔ دھورا۔
 دھورے - (دھو - رے) (۱) (۱) نزدیک - قریب - سامنے - تقریباً قریب - قریب۔
 دھوستا - (دھو - س - نا) (۱- مذ) (۱) (۱) ٹھونسا۔ گھسیڑنا۔ بھرنا (۲) مہلتی لا مگر مار کر زخمی کرنا۔
 دھوک - (۱- مذ) (۱) (۱) کلابتون بننے کی سلائی۔
 دھوکا - (دھو - کا) (۱- مذ) (۱) دغا۔ فریب۔ مکر (۲) غلط فہمی۔ شہ۔
 پچھا ہٹ (۳) پرندوں کو ڈرانے کا پتلا (۴) سرسب (۵) ڈر۔

گھبراہٹ - مایوسی (۶) مٹا ہری صورت (۷) کوئی چیز جو دُور سے صاف نظر نہ آئے۔

دھوکا کھانا - (۱) محاورہ) دھوکا کھانا۔

دھوکا دھڑکی - (۱) مٹھ) دُفا - فریب۔

دھوکا دیہی - (۱) ف - مٹھ) فریب دینا۔

دھوکا دینا - (۱) محاورہ) (۱) فریب دینا۔ پھل کرنا (۲) مغالطہ دینا۔

دھوکا کھانا - (۱) محاورہ) (۱) غلطی کرنا۔ چوکنا (۲) فریب میں آنا۔

دھوکا ہونا - (۱) محاورہ) (۱) غلطی ہونا۔ سہو ہونا (۲) شائبہ ہونا۔

شک ہونا۔

دھوکے باز - (۱) مذ) دغا باز۔ مکار۔ فریبی۔

دھوکے بازی - (۱) ف - مٹھ) فریب - دغا بازی۔

دھوکے کی ٹٹھی - (۱) مٹھ) (۱) فریب میں لانے والی یا مغالطہ

دینے والی شے (۲) ٹٹھی جس کی اوٹ میں شکار کیلتے ہیں۔

دھوکے میں - (۱) (۱) دھوکا کھا کر (۲) کسی اور کے گمان سے۔

دھوکے میں آنا - (۱) محاورہ) دھوکا کھانا۔

دھوکے میں رہنا - (۱) محاورہ) جھوٹی امید میں رہنا۔ مغالطہ ہونا۔

جھوٹے وعدے پر یقین کرنا۔

دھوکہ پینا - (۱) مٹھ) صاف کر کے پینا۔

دھول - (۱) مذ) مٹھ) (۱) جوار کا بہرا پتھا جسے چوستے ہیں (۲) ایک

قسم کا گنا (۳) دھب - تھپڑ۔ چانٹا۔

دھول دھپنا - (۱) مذ) (۱) ایک دوسرے کو تھپڑ مارنا (۲) پھٹ پھاڑ۔

دھول - (۱) مٹھ) خاک - گرد - راکھ - مٹی۔

دھول اڑا دینا - (۱) محاورہ) مٹا دینا۔ خاک میں ملا دینا۔

دھول اڑانا - (۱) محاورہ) (۱) خاک اڑانا (۲) بدنام کرنا۔ رسوا کرنا۔

(۳) آوارہ پھرنا۔

دھول اڑنا - (۱) محاورہ) (۱) خاک اڑنا (۲) تباہی مچنا۔

دھول بھڑنا - (۱) گرد دُور ہونا (۲) پٹنا۔ پٹانی ہونا۔

دھولا - (دھو - لا) (۱) صفت) سفید - روشن - چمکدار۔ کوئی سفید چیز۔

دھولا پڑنا - (۱) محاورہ) رنگ سفید یا زرد ہونا۔

دھولا پینا - (۱) مذ) سفیدی - چمک - صفائی۔

دھولے آجانا - (۱) محاورہ) سفید بال نکلنے شروع ہونا۔

دھولانا - (دھو - لا) (نا) (۱) مٹھ) دھول مارنا۔ چانٹا رسید کرنا۔

دھولی - (ق - ۱) مٹھ) شرمندگی۔

دھولیا - (دھول - یا) (۱) مٹھ) (۱) دھول یا خاک کا بنا ہوا (۲) مٹی

کی بنی ہوئی کوئی شے۔ مٹی۔

دھولیا پینا کرنا۔ کسی معاملہ کو دبانے یا علیا میٹ کرنا۔

دھوم - (۱) مٹھ) (۱) شور وغل - افواہ - ہنگامہ (۲) شہرت۔ غلغلہ۔

شان و شوکت (۳) ایک قسم کا چکن کا کام۔

دھوم اٹھنا - (۱) محاورہ) (۱) دھوم ہونا (۲) شوری مچانا۔

دھوم اڑنا - (۱) محاورہ) شہرت ہونا۔

دھوم پڑنا - (۱) محاورہ) شہرت ہونا۔

دھوم دھام - (۱) مٹھ) زور شور۔ دھام تابع موضوع ہے۔

دھوم دھامی - (۱) صفت) (۱) بھڑکیلا۔ خوب صورت (۲) بڑی

دھوم دھامی سے۔

دھوم دھڑکا - (۱) مذ) ہنگامہ۔ شور۔ غلغلہ۔

دھوم ڈالنا - (۱) محاورہ) شور مچانا۔ ہنگامہ برپا کرنا۔

دھوم کرنا - (۱) محاورہ) (۱) ہنگامہ برپا کرنا (۲) شہور کرنا۔

دھوم مچانا - (۱) محاورہ) (۱) شور کرنا۔ غل کرنا (۲) فریاد کرنا۔

دھوم مچینا - (۱) محاورہ) (۱) شہرت ہونا (۲) ہنگامہ برپا ہونا۔

دھوم ہونا - (۱) محاورہ) شہرت ہونا۔

دھویا - (دھو - نا) (۱) مذ) (۱) دھوئیں کا رنگ۔ سُرخ اور سیاہ ملا ہوا

رنگ۔ آدرا رنگ۔ سیاہ رنگ (۲) ایک قسم کا بوتل۔

دھویک دھپنا - (دھو - تک - دھی) (یا) (۱) مٹھ) غل - شور۔ داد پلا۔

شور و غوغا۔

دھون - (۱) مذ) (۱) پس سیر کا وزن۔ آدھامن۔

دھول - (۱) مٹھ) کھانسنے کی آواز۔

دھول دھول کرنا - (۱) محاورہ) بار بار کھانا۔ کھانسی کا عارضہ ہونا۔

دھول - (۱) مٹھ) (۱) توپ یا بندوق کی آواز۔ پٹانے یا بمب کے

چلنے کی آواز۔ دھاکا۔ دھول کی آواز۔

دھول دھول - (۱) صحت) مٹھ) توپ یا بندوق کی متواتر آواز۔

دھوننا - (دھو - نا) (۱) مٹھ) (۱) پانی سے صاف کرنا۔

دھوننا - (دھو - نا) (۱) مذ) (۱) ایک قسم کا گوند جو بہت جلد آگ

پکڑ لیتا ہے۔

دھوننا - (دھون - تال) (۱) مٹھ) (۱) دولت مند (۲) فیاض۔ دانا

(۳) طاقت ور۔ بہادر (۴) عیاش۔ شریر۔

دھونٹی - (دھون - ٹی) (ق - ۱) مٹھ) چرواہے کی نکرالی۔

دھونڈھا - (دھون - دھا) (۱) مذ) (۱) ٹھنڈا۔ ٹھنڈا۔ تودہ۔

دھونس - (دھو - نا) مٹھ) (۱) دھمکی۔ ڈراوا (۲) دھوکا۔ فریب۔

دھونس پینی - (۱) مٹھ) دھوکا۔ جھانسا۔ دم دلاسا۔

دھونس دینا - (۱) محاورہ) دھمکی دینا۔

دھونس میں آنا - (۱) محاورہ) (۱) ڈر جانا (۲) فریب میں آنا۔

دھونسنا - (دھون - سا) (۱) مذ) (۱) بڑا فقارہ (۲) صدر۔

دھونسا کھانا - (۱) محاورہ) (۱) شامت آنا (۲) صدر اٹھانا۔

دھونسا - (دھون - سا) (۱) مذ) (۱) دھونسا۔ دبانا (۲) سزا دینا۔

پٹینا۔ مارنا۔

دھونسا - (دھون - سی) (آ) (۱) مذ) (۱) مکار۔ فریبی (۲) ناگذاڑی

دھون کرنے والا۔

دھونک (دھونکن) - (۱) مٹھ) (۱) بیاس کی شدت (۲) دمہ کا مرض۔

دھونکن - (دھون - کن) (نا) (۱) مٹھ) دھونکنی سے پھونکنا۔ ہوا دے کر

آگ تیز کرنا۔

دھونگنی - (دھوں بک - نی) (دہ - ۱ - مٹ) آگ چھو بچنے کا چڑے کا ہشک کی شکل کا آکر۔

دھونگنی لگانا - (۱ - محاورہ) سانس چھوٹنا۔

دھوئی - (دھو - نی) (دہ - ۱ - مٹ) (۱) خوشبو جلانا۔ دھوواں اٹھنے کے لیے کوئی چیز آگ میں ڈالنا (۲) سادھوؤں کا الاؤ۔

دھوئی تیکانا - (۱ - محاورہ) سادھوؤں کا آگ کے الاؤ کے سامنے بیٹھ کر بیٹا کرنا۔

دھوئی رمانا - (۱ - محاورہ) آگ کا الاؤ جلا کر سادھوؤں کی طرح بیٹھ جانا۔ کسی جگہ بیٹھ جانا۔

دھوئی لگا کر بیٹھنا - (۱ - محاورہ) کسی پر پختہ اعتماد کرنا۔

دھوئی لینا - (۱ - محاورہ) ناک میں دھواں لینا۔

دھوون - (دھو - ون) (دہ - ۱ - مٹ) دہ پانی جس میں کوئی چیز دھوئی گئی ہو اور اس میں کثافت آگئی ہو۔

دھوئی - (دھو - ای) (دہ - ۱ - مٹ) دھلی ہوئی۔ پاک کی ہوئی۔ صاف کی ہوئی۔ دھوئی دھلائی آنکھ - (۱ - مٹ) بے شرم آنکھ۔

دھوئی ہوئی زبان - (۱ - مٹ) (۱) پاک کی ہوئی زبان۔ شستہ زبان۔ فصیح زبان۔

دھویا جانا - (۱ - محاورہ) بے شرم ہونا۔ بے باک ہونا۔

دھویا دھایا - (دہ - ۱ - مٹ) (۱) صاف ستھرا۔ پاک و صاف (۲) بے شرم۔ بے غیرت۔

دھویا دیدہ - (۱ - مٹ) بے غیرت۔ بے حیا۔

دھی - (دہ - ۱ - مٹ) (۱) بیٹی (۲) سمجھ عقل۔

دھی دھیانی - (دہ - ۱ - مٹ) بیٹی۔ خاندان کی بیٹی۔ علقہ یا گاؤں کی بیٹی۔ دھی چھوڑ داما داسیانا - (۱) بیٹی کی نسبت (۲) ماد کی زیادہ خاطر ملحوظ رکھی جاتی ہے۔

دھیان - (دھ - یان) (دہ - ۱ - مٹ) خیال۔ توجہ۔ فکر۔ سوچ۔ لحاظ۔

دھیان لگانا - (۱ - محاورہ) خیال آنا۔ یاد آنا۔

دھیان بٹنا - (۱ - محاورہ) دوسری طرف متوجہ ہونا۔ خیال کا پراگندہ ہونا۔

دھیان بندھنا - (۱ - محاورہ) کسی کا تصور بندھنا۔ کسی کا خیال آنا۔

دھیان پر چڑھنا - (۱ - محاورہ) کسی بھولی بسری بات کا یاد آ جانا۔

دھیان پھر جانا - (۱ - محاورہ) طبیعت کا میلان بھٹ جانا۔ توجہ نہ رہنا۔

دھیان دور کرنا - (۱ - محاورہ) یاد کرنا۔ یاد کرنے کی کوشش کرنا۔ ہر پہلو پر نگاہ کرنا۔

دھیان دھرنا - (۱ - محاورہ) تصور جمانا۔ مراقبہ میں بیٹھنا۔

دھیان دینا - (۱ - محاورہ) توجہ سے کام کرنا۔ خیال کرنا۔

دھیان رکھنا - (۱ - محاورہ) خیال رکھنا۔ نگاہ میں رکھنا۔

دھیان رہنا - (۱ - محاورہ) خیال رہنا۔ یاد رہنا۔

دھیان سے - (۱) توجہ سے۔ سوچتے ہوئے۔

دھیان سے اترنا - (۱ - محاورہ) یاد نہ رہنا۔ بھول جانا۔

دھیان کرنا - (۱ - محاورہ) سوچنا۔ فکر کرنا۔ مراقبہ میں جانا۔ توجہ کرنا۔

دھیان لڑانا - (۱ - محاورہ) عجز کرنا۔ فکر کرنا۔ یاد کرنے کی کوشش کرنا۔

دھیان لگانا - (۱ - محاورہ) توجہ کرنا۔ خیال کرنا۔

دھیان میں آنا - (۱ - محاورہ) سمجھ میں آنا۔ خیال میں آنا۔ یاد آ جانا۔

دھیان میں لانا - (۱ - محاورہ) خاطر میں لانا۔ قابل توجہ۔ خیال کرنا۔

دھیان میں ہونا - (۱ - محاورہ) یاد ہونا۔

دھیانی - (دھ - یان) (دہ - ۱ - مٹ) خدا سے لو لگانے والا۔ گیانی (دہ - ۱ - مٹ) (۱) بیٹی۔ بیٹی یا بہن کی بیٹی۔

دھیرو - (دھ - صفت) (۱) صبر۔ تحمل۔ ثابت قدم۔ مستقل مزاج (۲) دلیری۔ جوصلہ۔

دھیروا - (دھی - وا) (دہ - ۱ - مٹ) (۱) آہستہ چلنے والا۔ نرم مزاج (۲) وحشی جانور۔

جسے رام رکھ لیا گیا ہو (۳) وہ شخص جس کا ہفتہ آرتھکا ہو۔

دھیروا سوٹھیرا - (۱ - مٹ) نرم مزاج گہرا ہوتا ہے جو پانی آہستہ چلے وہ گہرا ہوتا ہے۔ مستقل مزاج آدمی کا میاب رہتا ہے۔

دھیروج - (دھی - روج) (دہ - ۱ - مٹ) جوصلہ۔ جرأت۔ استقلال۔ مضبوطی۔

دھیروج بندھانا - (۱ - محاورہ) جوصلہ افزائی کرنا۔ تسلی دینا۔

دھیروج کرنا - (۱ - محاورہ) صبر کرنا۔ بہت کرنا۔

دھیروگ - (دھی - رگ) (دہ - ۱ - مٹ) تسلی۔ سہارا۔

دھیروی - (دھی - ری) (دہ - ۱ - مٹ) (۱) آنکھ کی پٹلی (۲) مستقل مزاجی (۳) پتنگ بازی میں مارنے والا شخص۔

دھیروی دھیرو پکارنا - (۱ - محاورہ) پتنگ بازی میں اپنی فتح کا اعلان کرنا۔ دھیروی دھیرو کہنا۔

دھیروے دھیروے - (۱) (دہ - ۱ - مٹ) آہستہ آہستہ۔

دھیروے سے - (۱) (دہ - ۱ - مٹ) آہستہ سے۔ دہلی آواز سے۔

دھیلا - (دھ - لا) (دہ - ۱ - مٹ) آدھا پیسہ۔

دھیلا دمڑی - (۱ - مٹ) قلیل رقم۔

دھیلاؤ - (دھ - لا) (دہ - ۱ - مٹ) (۱) رقص۔ ڈھلان۔ نشیب۔

دھیلا - (دھ - لی) (دہ - ۱ - مٹ) اٹھتی۔

دھیما - (دھ - صفت) (دہ - ۱ - مٹ) (۱) آہستہ آہستہ۔ تاخیر (۲) حلیم۔ شرافت۔

دھیما - (دھی - ما) (دہ - ۱ - مٹ) (۱) آہستہ۔ گاہل (۲) نرم۔ آہستہ۔ مدھم۔

دھیما بازار - (۱ - مٹ) (۱) مندر بازار (۲) ایسی منڈی جس کے نرخ آہستہ آہستہ بڑھ رہے ہوں۔

دھیما بڑھانا - (۱ - محاورہ) کم ہو جانا۔

دھیما کرنا - (۱ - محاورہ) (۱) گھٹانا۔ نرم کرنا (۲) ہفتہ ٹھنڈا کرنا۔

دھیرو - (دھی - مڑ) (دہ - ۱ - مٹ) (۱) ہندو کہاروں کی ایک ذات (۲) ماہی گیر (۳) کالا آدمی۔

دھیرو دھوکڑ - (دھ - صفت) (۱) موٹا اور سست (۲) بے فکر۔ خود رائے۔

دھیرو دھوکڑ اللہ میاں کے نوکر - (دہ - ۱ - مٹ) آزاد اور خود ستر کی نسبت لیتے ہیں۔

دھیرو دھوکڑی - (دہ - ۱ - مٹ) (۱) زبردستی۔ خود ستری۔

دھیرونگ - (دھ - نگ) (دہ - ۱ - مٹ) (۱) موٹا تازہ آدمی (۲) بد ماسش عورت کا آشنا۔ مستنڈا۔

دیانت - (دی-یانت) (ع-ا-مشت) (۱) ایمانداری - راستی (۲) امانت -
 دیانتدار - (ع-ف-صفت) ایماندار - راستباز -
 دیانتداری - (ف-ن-امشت) ایمانداری - راستی -
 دیانت - (و-یا-ذنت) (و-صفت) رحمدل - مہربان -
 دیسا - (دی-با) (ف-ا-مذ) ایک قسم کا نشیمن کپڑا -
 دیباجر - دیباچہ - (دی-با-جر) (ع-ا-مذ) (۱) کتاب کا مقدمہ -
 پیش لفظ - ہمد (۲) آراستہ -
 دیسی - (و-ا-مشت) ملک - رانی - دیوی -
 دیپ - (و-ا-مذ) (۱) چراغ - روشنی - چمک (۲) چھوٹی دیوالی (۳) ایک
 راگ - دیپک -

دیپ مالا - (و-ا-مشت) چراغوں کی قطار - چراغاں -
 دیپک - (دی-پک) (س-ا-مذ) (۱) روشنی - چراغ (۲) ایک قسم کی آتش
 بازی (۳) ایک قسم کا راگ کہتے ہیں اس کی تاثیر سے آگ لگ جاتی ہے -
 دیپنا - (دی-پ-نا) (ف-صفت) (۱) روشن کرنا (۲) چمکانا -
 دیت (دیت) (ع-ا-مشت) (۱) خون بہا (۲) جڑمانہ -
 دیتا بھولے نہ لیتا - (مشل) معاملہ صاف اور سیدھا ہے -
 دے چمکانا - (دے-پ-چمک-نا) (ف-صفت) (۱) آد پر سے نیچے گرانا -
 دیچور - (دی-چور) (ف-صفت) (۱) سیاہ - تاریک (۲) اماؤس کی رات -
 (۳) سیاہ چیز - سیاہی -
 دیدار - (ف-ا-مشت) نگاہ - نظر (صفت) دیکھا ہوا - مرکبات میں استعمال
 ہوتا ہے جیسے چشم دید -
 دید باز - (ف-صفت) دیکھنے والا - تاک جھانک کرنے والا -
 دید بازی - (ف-ا-مشت) آنکھیں لڑانا - تاک جھانک کرنا -
 دید بان - (و-مذ) (ع-صفت) جس میں سے تاک کرنا نہ باندھتے ہیں -
 دید بانی - (ف-ا-مشت) محافظت - بچھاؤ -
 دید خواہ - (ف-صفت) ملاقات کا خواہش مند -
 دید نشیند - (ف-صفت) جان پہچان - واقفیت -
 دید نہ نشیند - (ف-صفت) دیکھی نہ سنی - عجیب - انوکھا - نادر - نایاب -
 دید و باز دید - (ف-ا-مشت) آمد و رفت رکھنا - ایک دوسرے سے
 ملنے کے لیے جانا -

دیدار - (دی-دار) (ف-ا-مذ) جلوہ - درشن - نظارہ - صورت - چہرہ -
 دیدار بازی - (ف-ا-مشت) نظر بازی - تاک جھانک -
 دیدار بانا - (ا-مذ) محبوب کی صورت دیکھنا -
 دیدار دکھانا - (ا-مذ) (۱) محاورہ) صورت دکھانا - محبوب کا آنا -
 دیدار کا بھوکا ہونا - (ا-مذ) (۱) محاورہ) محبوب کی صورت دیکھنے کے لیے ترس جانا
 دیدار کرنا - (ا-مذ) (۱) محاورہ) محبوب کی صورت دیکھ جانا -
 دیدار ہونا - (ا-مذ) (۱) محاورہ) محبوب سے اتفاقاً ملاقات ہو جانا یا اُسے
 دیکھ جانا -
 دیدارو - (دی-ار) (و-ا-مذ) (۱) (و-ا-مذ) (۱) شکل - وچہرہ -
 دیدنی - (دیدنی) (ف-ن-صفت) (۱) دیکھنے کے قابل (۲) دیکھا ہوا -

دھینکا دھانگی - (و-ا-مشت) دست درازی - جھوٹا کھیل - ہاتھ پائی -
 دھینکا کشتی - (و-ا-مشت) ہاتھ پائی - دست درازی - دنگنا -
 دھینور - (دھین - ذر) (و-ا-مذ) پھیلا - ایک ذات -
 دھیوت - (دھے - وک) (و-ا-مذ) سات سروں میں سے ایک کا نام

د

دُئی - (د-ای) (و-ا-مذ) (۱) خدا - جھگوان (۲) دیوتا - پیغمبر -
 دُئی مارا - (۱) اللہ مارا (۲) بد قسمت -

دی

دی - (ف-ن-ا-مذ) گنڈا ہوا گل -
 دیروز - (ف-ن-ا-مذ) گنڈا ہوا گل -
 دیروزہ - (ف-صفت) گنڈے ہوئے گل سے متعلق - گذشتہ -
 دیشب - (ف-ن-ا-مذ) گنڈے ہوئے گل کی رات -
 دے - (ف-ن-ا-مذ) (۱) شش سال کا دسواں ہینڈ - ناگہ -
 دیا - (و-ا-مشت) (۱) بخشش - عطا (۲) ہمدردی - رحمدلی - مہربانی -
 دیا کرنا - (ا-مذ) (۱) مہربانی کرنا - عطا کرنا -
 دیا دیوا - (و-ا-مذ) (۱) چراغ (۲) دینا کا ماضی مطلق - دیا ہوا -
 دیا ہتی کرنا - (ا-مذ) (۱) محاورہ) چراغ جلانا - چراغ روشن کرنا -
 دیا سلائی - (ا-مذ) (۱) چراغ جلانے کی تیلی - جس میں مسالا لگا ہوتا
 ہے (۲) وہ عورت جو لڑائی کی آگ لگاتی پھرے -
 دیا کھانا - (ا-مذ) (۱) کسی کی امداد پر سہ اوقات کرنا کسی کا محتاج ہونا -
 دیا لیا - خدا کی راہ پر دیا ہوا - بھلائی - نیک سلوک -
 دیا لیا اڑے آنا - (ا-مذ) (۱) محاورہ) خیر خیرات کی وجہ سے کسی مصیبت
 سے بچ جانا -
 دیے کا چراغ نہیں بڑھتا - (ا-مذ) (۱) محاورہ) سعادت کی یادگار کبھی نہیں مٹی
 دیے کی روشنی عشرتک - (امثل) خیرات اور بخشش کرنے والے
 کا نام ہمیشہ زندہ رہتا ہے -
 دیار - (دی-یار) (ع-ا-مذ) شہر - علاقہ - ملک -
 دیارا - (دی-یار) (و-ا-مذ) (۱) دیوار برآمدہ - زمین جو دریا کے مٹ جمانے
 سے نکل آئے -
 دیا قوزہ - (و-یا-قوزہ) (و-ا-مذ) (۱) ایک مرکب دوا (۲)
 خشک شش کا شربت -
 دیال - (و-یا) (و-صفت) رحمدل - مہربان -
 دیالو - (و-یا-و) (و-صفت) سخی - ہمدرد - فیاض -
 دیانا - (و-یا-و) (و-صفت) (۱) دیکھنے کے قابل (۲) دیکھا ہوا -

دیدوں سے کاجل چرانا۔ (۱- محاورہ) صفائی سے چوری کرنا۔
 دیدوں میں چربی چھانا۔ (۱- محاورہ) اہمیت نظر نہ آنا۔ بُرائی
 بھلائی نہ سونھنا۔
 دیدوں کی صفائی۔ (۱- محاورہ) لے شرمی۔ بے حیائی۔
 دیدوں کی قسم۔ (۱- معنی) آنکھوں کی قسم۔
 دیدوں میں سرمسوں پھولنا۔ (۱- محاورہ) گھبراہٹ میں کچھ نظر نہ آنا۔
 دیدہ۔ (دی-دہ) ذن (۱- مذ) (۱) آنکھ چشم (۲) دیری بے باکی۔ جرأت۔
 دیدہ بڑا ہے۔ (۱- محاورہ) بہت ڈھیٹ ہے۔
 دیدہ بیٹا۔ (ف-۱- مذ) گہرائی تک دیکھنے والی آنکھ۔ دیکھنے چشم بیٹا۔
 دیدہ پیچھ جانا۔ (۱- محاورہ) آنکھ کا مناع ہوجانا۔ بصارت جاتی رہنا۔
 دیدہ پھٹا ہونا۔ (۱- محاورہ) گستاخ ہونا۔ بے باک ہونا۔
 دیدہ بھٹ جانا۔ (۱- محاورہ) حیرت سے آنکھیں کھلی رہ جانا۔
 دیدہ بھٹی۔ (۱- معنی) بڑی بڑی اور بے رس آنکھوں والی۔
 دیدہ درائی۔ (ف-۱- معنی) دیری۔ لے باکی۔ لے لہجی۔
 دیدہ جوہر۔ (ف-۱- مذ) وہ سلتے جو تلوار کی آب میں نظر آتے ہیں۔
 دیدہ دل۔ (ف-۱- مذ) دل کی آنکھ۔ باطنی آنکھ۔
 دیدہ دلیر۔ بے باک۔ بے حیا۔
 دیدہ دلیری۔ (ف-۱- معنی) بے باکی بے حیائی۔
 دیدہ دلیل۔ (ف-۱- معنی) (۱) بے حیا۔ نڈر۔ بے باک (۲) دلیر۔
 دیدہ دلیل۔ (ف-۱- معنی) بے باکی۔ دلیری۔
 دیدہ دھوئی۔ (ف-۱- معنی) بے حیا عورت۔ بے غیرت۔
 دیدہ ریزی۔ مینا کاری۔ باریک کام جس میں آنکھوں پر زور ڈالنا پڑے۔
 دیدہ وا ہونا۔ (۱- محاورہ) آنکھ کھلی ہونا۔
 دیدہ نہ چھٹنا۔ (۱- محاورہ) دل نہ لگانا۔
 دیدہ نہ لگانا۔ (۱- محاورہ) توجہ نہ کرنا۔ دل نہ لگانا۔
 دیدہ و دانستہ۔ (ف) جان بوجھ کر۔
 دیدہ و دل فرس کرنا۔ (۱- محاورہ) تواضع کرنا۔ بہت آؤ بھگت کرنا۔
 دیدہ و۔ (ف-۱- معنی) دانہ۔ جوش مند۔ صاحب نظر۔
 دیدہ وری۔ (ف-۱- معنی) دانائی۔ عقلمندی۔
 دیدہ ہوئی ہونا۔ (۱- محاورہ) بے باک اور چالاک ہونا۔
 دیدے آلٹ جانا۔ (۱- محاورہ) نزع کی کیفیت طاری ہونا۔
 دیدے بدلنا۔ (۱- محاورہ) بے مروتی کرنا۔ بے نرمی اختیار کرنا۔
 دیدے بھر آنا۔ (۱- محاورہ) آنکھوں میں آنسو آنا۔
 دیدے پتھر اچھانا (چشم ہونا)۔ (۱- محاورہ) آنکھوں کی روشنی جاتی رہنا۔
 اندھا ہوجانا۔
 دیدے پھاڑ پھاڑ کر دیکھنا۔ (۱- محاورہ) گھوننا۔ غور سے دیکھنا۔
 دیدے پھرانا۔ (۱- محاورہ) لحاظ نہ کرنا۔ بے مروت ہونا۔
 دیدے پھوڑنا۔ (۱- محاورہ) دیدہ ریزی کرنا۔ باریک کام محنت سے کرنا۔
 دیدے تلوں سے کلنا۔ (۱- محاورہ) کمال درجہ خوشامد کرنا۔
 دیدے چار ہونا۔ (۱- محاورہ) (۱) جوشیا اور چالاک ہونا (۲) ملاقات ہونا۔

دیدے چکانا۔ (۱- محاورہ) ناز و ادا سے آنکھوں کو گردش دینا دیدے شکانا۔
 دیدے دکھانا۔ (۱- محاورہ) آنکھیں دکھانا۔ سختے کا اظہار کرنا۔
 دیدے سفید ہونا۔ (۱- محاورہ) اندھا ہوجانا۔
 دیدے کا بانی ٹھیل جانا۔ (۱- محاورہ) بے حیا اور بے غیرت ہوجانا۔
 دیدے شکانا۔ چشم و ابرو کے اشاروں سے باتیں کرنا۔
 دیدے نکالنا۔ (۱- محاورہ) ختم گیس ننگا ہوں سے دیکھنا۔ آنکھوں ہی
 آنکھوں میں شکل کا اظہار کرنا۔
 دیدے نیلے نیلے کرنا۔ (۱- محاورہ) دیکھنے دیدے نکالنا۔
 دیدے دھوینا۔ (۱- معنی) بے لحاظ۔ مروت۔
 دے دے ٹنگنا۔ دے دے مارنا۔ (۱- معنی) کسی چیز کو متواتر کرنا۔
 دے ڈالنا۔ (دے۔ ڈال۔ نا) (۱- معنی) دے دینا بخش دینا۔ عطا کرنا۔
 ڈیر۔ (ف-۱- مذ) مندر۔ جت خانہ۔
 ڈیر کھن۔ (۱- معنی) مکافات۔ (دکھا۔ دیکھ) دینا۔
 ڈیر۔ (ف-۱- معنی) قطر۔ عرصہ۔ مدت۔
 ڈیرا شتا۔ (۱- معنی) مدت کے بعد بے تکلف ہونے والا شخص۔
 ڈیر آید دُرست آید۔ (ف-۱- معنی) جو کام آہستہ آہستہ اور سہولت سے ہووے
 اچھا اور دُرست ہوتا ہے۔
 ڈیر پیا۔ (ف-۱- معنی) پائیدار۔ مضبوط۔
 ڈیر سویر۔ (۱- معنی) قطر۔ ڈیر۔
 ڈیر کرنا (لگانا)۔ (۱- محاورہ) تاخیر کرنا۔ ڈھیل ڈالنا۔
 ڈیر ہونا۔ (۱- معنی) وقت زیادہ لگ جانا۔ مقررہ وقت سے زیادہ عرصہ ہوجانا۔
 ڈیرا۔ (دے۔ را) (۱- مذ) (۱) خیمہ۔ رہنے کی جگہ۔ مکان (۲) مکان سے بلا ہوا
 چھوٹا مکان جہاں جہاں وغیرہ ٹھہرائے جاتے ہیں۔ ڈیرا۔
 ڈیرا نہ۔ (دے۔ را۔ نہ) (ف-۱- معنی) ڈیر کے بعد عاید ہونے والی نہیں۔
 ڈیر ری۔ (دے۔ ری) (۱- معنی) تاخیر۔ توقف۔ در۔
 ڈیر سینہ۔ (دے۔ ری۔ نہ) (ف-۱- معنی) قدیم۔ بڑانا۔ بزرگ۔ بڑا حصہ۔ تجربہ کار۔
 ڈیر ٹہ۔ (دے۔ ٹہ) (ف-۱- معنی) بڑا پیٹ۔ عمل۔
 ڈیر۔ (ف-۱- معنی) بھینر۔
 دیس۔ (۱- مذ) (۱) ملک۔ وطن۔ علاقہ (۲) ایک راگ کا نام جو نصف
 شب کے وقت گایا جاتا ہے۔
 دیس انتر۔ دیس نکالا۔ جلا وطنی (ف)۔
 دیس بدیس پھرنا۔ (۱- محاورہ) (۱) سیر سیاحت کرنا (۲) مارا مارا پھرنا۔
 دیس بھاشا۔ (۱- معنی) اپنے وطن کی زبان۔
 دیس بھائی۔ (۱- معنی) ہم وطن۔ اپنے ملک کا رہنے والا۔
 دیس چوری پر دیس بھکشا۔ (۱- معنی) اپنے وطن اور جان پہچان
 والوں میں دغ و دغا قائم رکھنا اتنا ضروری ہے کہ اس کی خاطر
 لوگ چوری تک کرنے پر آمادہ ہوجاتے ہیں، لیکن پرانے ملک میں
 جہاں کوئی جاننے والا نہیں ہوتا بھیک تک مانگنے میں عار نہیں ہوتی۔
 دیس نکالا۔ (۱- محاورہ) جلا وطن کر دینا۔
 دیسا۔ (دے۔ سا) (۱- مذ) مُردے کی سال بسال یادگار۔ برسی۔

دیسے (دے سی) (دہ - صفت) دیس سے متعلقہ - وطنی - وطن کی بنی ہوئی اپنے ملک کی شے۔

دینخ - (ڈاڑھ - ۱) - مسٹ) دیگ - پکانے کا برابر بن۔

دینک - (ق) دے کر - دے کے۔

دیکھ - (ق) - صفت) فریادرس۔

دیکھ - (۱) دیکھنا کا امر - کلمہ تاکید و تینبہہ - مخاطب کو کسی امر کی طرف متوجہ

کرنے یا خبردار کرنے اور دھمکانے کے لیے کہتے ہیں۔

دیکھ بھال - (دہ - ۱) - مسٹ) (۱) نگرانی - بخور دیکھنا (۲) تلاش۔

دیکھ بھال کرنا - (۱) - محاورہ) نگرانی کرنا۔

دیکھ بھال لینا - (۱) - محاورہ) اچھی طرح دیکھ لینا - غور کرنا۔

دیکھ پانا - (دہ - ۱) - مسٹ) دیکھ لینا - اچانک نظر پڑنا۔

دیکھ دکھ - (۱) - دیکھ کر۔

دیکھ دیکھ - (دیکھ تینبہہ) کیا کرتا ہے - ہوش میں آ۔

دیکھ ڈالنا - (دہ - ۱) - مسٹ) پڑھ کر ختم کر دینا - پڑھ لینا۔

دیکھ کر مینا - (۱) - محاورہ) بہت محبت کرنا کسی کے دیدار کو اپنی زندگی بنالینا

دیکھ کیسا علاج کرتا ہوں - (۱) - محاورہ) قرار واقعی سزا دینے کی جگہ کہتے ہیں

دیکھ لینا - (۱) - محاورہ) آزمانا - دیکھنا - سمجھنا۔

دیکھا - (دے - ۱) - (کھا) (دہ) (۱) - دیکھ لیا کسی کو کسی بات سے منع کیا جائے اور وہ

اسے کسے تو برا نتیجہ سنبھلنے پر کہتے ہیں (۲) دیکھنا کی ماضی (۳) آزمانا یا ہوا۔

دیکھا آؤ نہ دیکھا تاؤ - (۱) - محاورہ) موقع عمل نہیں دیکھا۔

دیکھا بھالا - (۱) - صفت) آدمودہ - جانا پہچانا - تجربہ کیا ہوا۔

دیکھا بھالی - (۱) - مسٹ) تلاش - جستجو کبھی چیز کو غور سے دیکھنا۔

دیکھا جائے گا - (۱) - محاورہ) (۱) پھر غور کیا جائے گا (۲) بدلہ لیا جائے

گا - خیال رہے گا (۳) کوئی پروا نہیں۔

دیکھا چاہیے - (۱) - محاورہ) (۱) امید نہیں دیکھیے شاید - دیدہ باید (۲)

قابل تعریف - سراہنے کے قابل - قابل دید۔

دیکھا دیکھی - (۱) - ایک دوسرے کی ریس کے کوئی کام کرنے لگنا۔

دیکھا کرتا - (۱) - محاورہ) لگاتار دیکھنا - دیکھنے کی عادت ہونا۔

دیکھا کرے - (کمزرتا) ہر وقت دیکھتا رہے کسی چیز کی تعریف میں کہا

جاتا ہے۔

دیکھا نہ بھالا - (۱) - صفت) دیدہ نشیند - جان نہ پہچان۔

دیکھا نہ بھالا صدتے کی خالہ - (۱) - مسٹ) (۱) خواہ خواہ واقفیت جتنا نا۔

اور خوشاد کرنا۔

دیکھا نہ سنا - (۱) - صفت) لاثانی عجیب - بے نظیر - اٹکا - دیدہ نشیند۔

دیکھا نہیں جاتا - (۱) - محاورہ) برناشت نہیں ہوتا - دیکھ کر رنج ہوتا ہے۔

دیکھا ہوا - (۱) - صفت) آزمانا ہوا - نظر آیا ہوا۔

دیکھا ہے - (۱) - محاورہ) دیکھ لیا ہے - تینبہہ کے طور پر۔

دیکھتا کیا ہے - (۱) - محاورہ) (دہ) کیا تاہل ہے - کیا سوچ رہا ہے۔

دیکھتے دیکھتے - (دہ) آنکھوں کے سامنے - آن کی آن میں - آنا فنا۔

دیکھتے رہ جانا - (دہ - ۱) - مسٹ) حیران رہ جانا - ہکا بکا رہ جانا۔

دیکھتی آنکھوں مکتی نہیں رنگی جاتی - (۱) - مسٹ) جان بوجھ کر نقصان نہیں

اٹھایا جاتا۔

دیکھتے جاؤ - (دیکھ تینبہہ) آگاہ رہو - خیال رکھو۔

دیکھتے دیکھتے - (۱) - مسٹ) بہت جلد - فوراً (۲) آنکھوں کے سامنے موجودگی

میں (۳) لگاتار دیکھنے کی وجہ سے۔

دیکھتے رہ جانا - (۱) - محاورہ) حیران رہ جانا - ہکا بکا رہ جانا۔

دیکھتے کا دیکھتا رہ جانا - (۱) - محاورہ) حیرت میں رہ جانا۔

دیکھتے ہی - (۱) - فوراً - نظر ڈالتے ہی۔

دیکھنا - (دیکھ - نا) (دہ - ۱) - مسٹ) (۱) نظر ڈالنا - نگاہ کرنا - خیال رکھنا - غور کرنا - سوچنا

سمجھنا (۲) ڈھونڈنا (۳) آزمانا - جانچنا (۴) لحاظ کرنا (۵) معائنہ کرنا۔

(۶) خبردار ہونا - ہوشیار ہونا (۷) بدلہ لینا۔

دیکھنا بھالنا - (۱) - محاورہ) غور کر کے دیکھنا - تلاش کرنا۔

دیکھنے کو - (دہ) ہمارے نام - بہت کم۔

دیکھنے کو نہیں - کہ یاب - نایاب۔

دیکھنے مٹی - (دہ - صفت) ناشی - مصنوعی - بیکار۔

دیکھنے میں آنا - (دہ - ۱) - مسٹ) تجربہ ہونا - ظاہر ہونا۔

دیکھنے والا - (دہ - صفت) صحبت یا فتنہ - فیض یافتہ - ہم عصر معتقد۔

دیکھو دیکھو - (دہ - کلمہ ندا) خبردار ہو - ہوشیار رہو۔

دیکھیں - آزمانے یا تجربہ کرنے کی جگہ کہتے ہیں۔

دیکھے - (دے - ۱) - (کھ - یے) (دہ) (۱) شاید - خدا جانے - واللہ اعلم (۲)

دیکھا جاتا ہے۔

دیکھے اوتٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے - (مثل) خدا جانے

تینبہہ کیا ہو۔

دیکھے شیر کی نظر کھلائے سونے کا نوالہ - (مثل) اولاد کے متعلق

کہتے ہیں کہ اچھا سے اچھا کھلیں، اگر اپنے زیر اثر اور رعب

کے نیچے رکھیں۔

دیکھے قسمت میں کیا بدا ہے - (مثل) اللہ ہی جانے کیا ہوگا۔

دیکھتے یہ کلی کہاں کرتی ہے - (مثل) خدا جانے یہ مصیبت کس پر

پڑتی ہے۔

دیکھے - (۱) نظر آنا (۲) (امر) سامنے آ کے نظر آئے۔

دیکھیں - (۱) آزمانیں - تجربہ کریں۔

دیگ - (ق) - مسٹ) کھانے پکانے کا بہت بڑا برتن - دینخ۔

دیگ کی کھرچن بھی بہت ہے - (مثل) بڑی مقدار میں سے

پہچانچا بھی بہت ہوتا ہے۔

دیگ میں سے ایک ہی چاول دیکھتے ہیں - دیگ میں سے

ایک ہی دانہ ٹوٹتے ہیں - (مثل) ایک سے سب کی جانچ

ہو جاتی ہے۔

دیکھیں گھنکنا - (۱) - محاورہ) دیکھیں پکنا - دیکوں میں پچھ چلنے کی آواز۔

دیگ کی - (۱) - مذ) وہ کپڑا جس سے دیگ اٹھاتے ہیں۔

دیگچہ - (دیگ - چہ) (ق) - ۱) - مذ) دیگ سے چھوٹا پکانے کا برتن - پتلا۔

دیگی - (دیگ پی) (ف - ۱-۱) پکانے کا چھوٹا برتن - پتیلی۔

دیگردان - (دیگ دان) (ف - ۱-۱) چولہا۔

دیگر - (دی گر) (ف - ۱-۱) دوسرا (۲) اور (۳) بعد دوپہر کا

وقت۔ عصر۔
دیگر بخودمتاز کرتی تمام شد۔ (ف - ۱-۱) مثل اب اتزانے سے کیا
ناڈہ وقت گزر چکا ہے۔

دیگ - (دی نگ) (ا - ۱-۱) (۱) چوتھی کی شکل کا سفید کپڑا جو لکڑی
کتابوں وغیرہ کو لکھا جاتا ہے (۲) سیلونگ۔

دیگ کا کیا (خورده) - (۱) جسے دیگ نے چاٹ لیا ہو (۲)

چچیک دار چہرہ۔

دیگ کے سے دانست - (۱) مثل تیزدانت۔

دیگ لگنا - (۱) عمارت (۲) کسی چیز میں دیگ کا داخل ہونا (۳) گھن
لگنا (۴) کوئی خرابی شروع ہونا (۵) محنت میں فتور پڑنا۔

دین - (۱) مذہب - مسک - دھرم - ایمان - جمع : اویان۔

دین پناہ - دین کا حامی - وہ عالم جو دین کا معاون دماغ ہو۔

دین حنیفی - (۱) ع - ۱-۱) حضرت ابراہیم کا دین - دین اسلام۔

دین دار - (۱) ع - ۱-۱) مذہب کا پابند متقی پرہیزگار۔ پابند شریعت۔

دین داری - (۱) ع - ۱-۱) مذہب کا پابند کی پابندی پرہیزگاری

شریعت کی پابندی۔

دین دینا - (۱) ع - ۱-۱) دونوں جہان - دُنیا اور عاقبت -

دین دینا سے جانا - (۱) ع - ۱-۱) دونوں جہان کے فائدے سے

محروم ہونا (۲) کسی کام کا نہ رہنا۔

دین دنیا کی تہمت نہیں - بالکل لاپرواہ ہے بے ہوش ہے۔

دین دین پیکارنا - (۱) ع - ۱-۱) مذہب کے نام پر اعلان جنگ کرنا۔

دین کا دعویٰ کرنا۔

دین کا جھنڈا - مذہبی جھنڈا - مذہب کی عظمت۔

دین کا نہ دینا کا - (۱) ع - ۱-۱) کسی کام کا نہیں - نکتا۔

دین - (۱) ع - ۱-۱) بخشش - عطیہ - احسان (۲) دینا۔

دین - (۱) ع - ۱-۱) قرض - ادھار - جمع : دیوون۔

دینا - (دے - نا) (۱) ع - ۱-۱) بخشا - عطا کرنا - سونپنا (۲) بیچنا (۳)

مقرر کرنا - پیش کرنا (۴) جتنا - پتے تک لگانا (۵) ادا کرنا - بیباق کرنا۔

(۶) بھرنا - تاوان دینا (۷) مارنا۔

دینا بھلا نہ باپ کا، بیٹی بھلی نہ ایک - (۱) مثل قرض اور بیٹی

اچھے نہیں ہوتے۔

دینا نہ لگنا - (۱) مذہب میں - ناحق بے ناڈہ۔

دینے کے ہزاروں لگا دیے ہیں - (۱) مثل خدا ہزاروں جیلوں سے دینا

دینار - (دی نار) (۱) ع - ۱-۱) مذہب میں سونے کا ایک ٹکڑا جو تقریباً

تین روپے کے برابر ہوتا ہے (۲) ایک دوکان نام (۳) ۱/۲ درہم

کے برابر ایک وزن (۴) کسی کی بڑھتی ہوئی شکل ڈال رہے۔

دینار مخرج - (۱) ع - ۱-۱) مخرج - مخرجی - سونے کا ٹکڑا۔

دینہ - (دی نی) (ف - ۱-۱) مذہبی - دین سے تعلق رکھنے والا۔

دینہ باب - (۱) مذہب وہ شخص جسے عیسائی پتے کو اصطلاح دینے کے

وقت مذہبی لحاظ سے باپ بنائیں - پادری - روحانی باپ۔

دینہ بھائی - (۱) مذہب ہم مذہب - ہم مسک - اپنے مذہب کا۔

دینیات - (دی نی) (یات) (۱) ع - ۱-۱) مخرج - دین کے متعلق - مذہب

سے تعلق رکھنے والی باتیں - مذہبی علم۔

دیو - (۱) ع - ۱-۱) مذہب (۲) مجبوت - ایک ڈراؤنا پیکر خیالی (۳) قوی ہیکل۔

(۴) پہلوان - جمع : دیواں۔

دیو پیکر - (۱) ع - ۱-۱) مذہب دیو کی مانند بھاری بھرم دیو کا سا ہم رکھنے والا۔

دیو دار - (۱) ع - ۱-۱) مذہب چکر کی تسم کا ایک درخت جسکی لکڑی عمارت کے کام آتی ہے۔

دیو زاد - (۱) ع - ۱-۱) مذہب دیو کا بیٹا - بلند قامت - پہلوان۔

دیو زود - (۱) ع - ۱-۱) مذہب آسب زدہ - جس پر بصورت کا سایہ ہو۔

دیو سار - (۱) ع - ۱-۱) مذہب دیو کی مانند - قوی ہیکل - بلند قامت۔

دیو - (۱) ع - ۱-۱) مذہب دیوتا - بزرگ - مقدس - قابل پرستش۔

دیو بانی - دیوتاؤں کی زبان - مقدس زبان - سنسکرت۔

دیو داسی - مندر میں رہنے والی کنواری بچکان۔

دیو مالہ - (۱) ع - ۱-۱) مذہب دیوتاؤں کے قصے - خیالی کہانیاں - علم الاقسام۔

دیو ناگری - (۱) ع - ۱-۱) مذہب سنسکرت رسم الخط۔

دیو - (دی وی) (۱) ع - ۱-۱) مذہب دیا - چراغ۔

دیوار - (دی وار) (۱) ع - ۱-۱) مذہب (۲) اڈ - پرودہ - پختہ پرودہ - مکان

یا چار دیواری کا ایک پہلو (۳) حد - رکاوٹ۔

دیوار اٹھانا - (۱) ع - ۱-۱) اڈ - پتھر - مٹی وغیرہ سے دیوار کھڑی

کرنا (مذہب) نابینا (۳) کنایتہ متعتر (۴) اٹھانے کا پان۔

دیوار بن جانا - (۱) ع - ۱-۱) دیوار تیار ہو جانا (۲) بے حس و حرکت ہو جانا۔

دیوار بہ دیوار - (۱) ع - ۱-۱) متصل - قریب - ملا ہوا۔

دیوار بیچ - (۱) ع - ۱-۱) مذہب (۲) اڈ - بہت قریب۔

دیوار چٹنا - (۱) ع - ۱-۱) مذہب دیوار بنانا۔

دیوار چین - مذہب چین کی مشہور دیوار جو شمال میں واقع ہے۔

دیوار تھے لڑنا - (۱) ع - ۱-۱) اڈ - اکیلے بیٹھے شور مچانا - تہنائی میں خفا ہونا۔

دیوار تہمتہ - (۱) ع - ۱-۱) مذہب ایک روانی دیوار جس کے متعلق کہتے ہیں۔

جو اس کے اوپر سے نیچے کی طرف دیکھے بے اختیار سینے لگتا ہے۔

دیوار کھل جانا - (۱) ع - ۱-۱) مذہب دیوار میں آپ ہی آپ شگاف ہو جانا۔

دیوار کھینچنا - (۱) ع - ۱-۱) مذہب دیوار کھینچنا - پرودہ یا علیحدگی کے لیے دو نظروں

کے درمیان دیوار بنا دینا (۲) حاصل ہونا - جدا کرنا۔

دیوار کے بھی کان ہوتے ہیں - (۱) مثل راز کی بات اکیلے میں بھی

آہستہ کہنی چاہیے - شاید کوئی دیوار کے پاس رہا ہو۔

دیوار گیری - (۱) ع - ۱-۱) مذہب لگانے کا ایسا (۲) خوشنما کے لیے

دیوار پر لگانے کا ٹکڑا۔

دیوار میں جینا جانا - (۱) ع - ۱-۱) مذہب (۲) پڑانے کے زمانے کی ایک سزا جس میں

مجرم کو زندہ دیوار میں پھنسا دیا جاتا تھا۔

دیوار سے برکسا۔ (۱۔ محاورہ) کوئی کیفیت ہر گوشے سے ظاہر ہونا۔
 دیوار ہم گوش ڈار۔ (۲۔ فن۔ محاورہ) دیکھے دیوار کے بھی کان ہوتے ہیں
 دیواریں چاٹنا۔ (۱۔ محاورہ) بہت شکل سے گزارہ ہونا۔
 دیوالہ۔ (دی۔ والہ)۔ (۱۔ ۱۔ مذ)۔ بیوپاری کا قرض ن ادا کر سکنے کا
 اعلان۔ غلطی۔
 دیوالہ نکالنا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) قرض ادا نہ کرنے کا اعلان کر دینا (۲)
 منس ہو جانا۔

دیوانی۔ (دی۔ وا۔ لی)۔ (۱۔ ۱۔ مٹ) (۱) دیپ مالا۔ چراغاں (۲) ہندوؤں
 کا ایک تہوار جب تکشی کی پوجا کرتے اور خوب روشنی کرتے
 ہیں۔ ودالی۔

دیوالیہ۔ (دی۔ وا۔ لی۔ یہ)۔ (۱۔ ۱۔ مذ) (۱) وہ شخص جس نے دیوالہ نکال
 دیا ہو (۲) منس۔ غریب (۳) ٹٹے پر بنییا۔

دیوان۔ (دی۔ وان)۔ (۱۔ ۱۔ مذ) (۱) دیوار شاہی۔ عدالت (۲)
 وزیر۔ رکن حکومت۔ محکمہ مال کا بڑا افسر (۳) دفتر محاسبہ۔ مقام اجلاس
 لوگوں کے جمع ہونے کی جگہ نشست گاہ (۴) شاعر کے کلام کا مجموعہ۔

دیوان اعلیٰ۔ (۱۔ ۱۔ مذ) وزیر اعلیٰ۔ وزیر اعظم۔
 دیوان خاص۔ (۱۔ ۱۔ مذ) (۱) شاہی خلوت خانہ (۲) شاہی
 دربار جہاں خاص خاص لوگوں کو جمع کیا گیا ہو۔

دیوان خالصہ۔ (۱۔ ۱۔ مذ) ہندو سلطانی کا محافظ۔ معتمد الدولہ۔
 دیوان خانہ۔ (۱۔ ۱۔ مذ) نشست گاہ۔ ڈرائیونگ روم۔
 دیوان عام۔ (۱۔ ۱۔ مذ) (۱) عام دربار (۲) وہ مقام جہاں عام دربار
 منعقد کیا جاتا ہے۔

دیوانگی۔ (دی۔ وان۔ گی)۔ (۱۔ ۱۔ مذ) (۱) پاگل پن۔ جنون۔
 دیوانہ۔ (دی۔ وان۔ نہ)۔ (۱۔ ۱۔ مذ) (۱) پاگل۔ مجنون۔ باؤلا۔ خبطی۔ عاشق۔
 دیوانہ باس تا غم تو دیویراں خونند۔ (۱۔ ۱۔ مذ) (۱) ایسا بے فکر جس کی
 فکر دوسروں کو کرنی پڑتی ہے۔

دیوانہ ہوا ہے۔ پاگل ہو گیا ہے۔ عقل ماری گئی ہے۔ بے وقوفی
 کی بات کہنے پر کہا جاتا ہے۔

دیوانہ بکار تویش ہویشار۔ (۱۔ ۱۔ مذ) (۱) دیوانہ اپنے مطلب کے لیے
 ہویشار ہوتا ہے۔

دیوانہ راہوئے بس است۔ (۱۔ ۱۔ مذ) (۱) دیوانے کو چھڑنے کے
 لیے صرف ہو کہہ دینا کافی ہے۔
 دیوانہ ہونا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) پاگل ہو جانا (۲) عاشق ہونا (۳) کسی
 خط میں حد سے گذر جانا۔

دیوانی۔ (دی۔ وا۔ نی)۔ (۱۔ ۱۔ مٹ) (۱) دیوان کا عہدہ۔ وزارت (۲)
 عدالت۔ تہذیب۔ وہ عدالت جس میں مال و زر، جائداد اور قرض و عینہ
 کے مقدمات کی سماعت ہو (۳) یاگل عورت۔

دیوانی ہاندڑی۔ (۱۔ ۱۔ مٹ) (۱) ہاندڑی جس میں سب قسم کی سبزیاں
 ترکاریاں اکٹھی پکائی جائیں۔

دیوانی آدمی کو دیوانہ کر دیتی ہے۔ (۱۔ ۱۔ مٹ) (۱) دیوانی مقدمہ انسان کو
 بہت پریشان کرتا ہے کیونکہ اس کے فیصلہ ہونے میں بڑا وقت اور زہریلے فریب ہوتا
 دیوانے کی بڑ۔ (۱۔ ۱۔ مٹ) (۱) ٹھیل بات۔ بکواس۔

دیوانا۔ (دیوانا)۔ (۱۔ ۱۔ مذ) (۱) فرشتہ۔ بزرگ۔ مقدس۔ بھگوان کا اوتار
 (۲) معصوم۔ بھلائی کرنے والا (۳) طنزاً۔ مکار۔ شریر (۴)
 ناگ۔ سانپ۔

دیوان۔ (دی۔ وان)۔ (۱۔ ۱۔ مذ) (۱) شمع دان۔ شمع گیر۔ حلق جس پر دیا
 رکھا جائے (۲) کالا گلوٹا (ق) (۳) چراغ۔ بشل۔
 دیوانت۔ (دی۔ وان)۔ (۱۔ ۱۔ مذ) (۱) بے عزت۔ بے حیثیت۔ بے حیا مرد۔
 بھڑوا۔ بدکاری سے دیدہ دانستہ چشم پوشی کرنے والا۔

دیور۔ (دی۔ ور)۔ (۱۔ ۱۔ مذ) شوہر کا چھوٹا بھائی۔
 دیورانی۔ (دیور۔ نا۔ نی)۔ (۱۔ ۱۔ مٹ) (۱) شوہر کے چھوٹے بھائی کی
 بیوی۔ دیور کی بیوی۔

دیول۔ (دی۔ ول)۔ (۱۔ ۱۔ مذ) چھوٹا مندر۔
 دیوتنی۔ (دی۔ ون)۔ (۱۔ ۱۔ مٹ) (۱) دیو کی بیوی۔ گراں ڈیل عورت۔
 بے ڈھنگے پن سے لمبی اور جسم عورت۔

دیوارا۔ (دی۔ وا۔ را)۔ (۱۔ ۱۔ مذ) مندر۔
 دیوی۔ (دی۔ وی)۔ (۱۔ ۱۔ مٹ) (۱) دیوتا کی تائینٹ۔ رانی۔ پاک باز
 عورت۔ خاتون۔ عزت دار عورت۔

دیوہ۔ (دی۔ وہ)۔ (۱۔ ۱۔ مٹ) (۱) جسم۔ تن۔ بدن (۲) چولا۔ وجود۔
 دیہہ۔ (دی۔ ہ)۔ (۱۔ ۱۔ مذ) گاؤں۔ جمع: دیہات۔

دیہات۔ (دی۔ ہات)۔ (۱۔ ۱۔ مٹ) (۱) جمع: دیہہ کی۔ بہت سے
 گاؤں۔ مراد غیر شہری علاقہ۔
 دیہات خالصہ۔ (۱۔ ۱۔ مٹ) (۱) سرکاری گاؤں۔

دیہاتی۔ (دی۔ ہاتی)۔ (۱۔ ۱۔ مٹ) (۱) دیہات کا رہنے والا۔
 دیہانت۔ (دی۔ ہانت)۔ (۱۔ ۱۔ مٹ) (۱) مرگ۔ انتقال۔
 دیہی۔ (دی۔ ہی)۔ (۱۔ ۱۔ مٹ) (۱) غیر شہری علاقہ سے متعلقہ گاؤں سے متعلق۔
 دیہی۔ (دی۔ ہی)۔ (۱۔ ۱۔ مٹ) (۱) جسم۔ تن۔ بدن۔

دیہیم۔ (دی۔ ہی)۔ (۱۔ ۱۔ مٹ) (۱) تاج شاہی۔ افسر۔ کلنی۔

ط
د

ڈ ڈال - ۵۔ مٹ [اردو کا بارھواں اور ہندی کا تیرھواں حرف - اجد کے حساب میں بٹکے تحت اس کے چار عدد مقرر ہیں۔ زبان کی نوک تانوسے لگ کر اس آواز کو ادا کرتی ہے یہ حرف عربی اور فارسی میں نہیں ہے۔

ط
ڈ

جاتا ہے۔
ڈاڑھی سپٹ میں ہونا۔ (۱۔ محاورہ) کم سنی میں عقلمند ہونا چھوٹی عمر میں

بڑوں سبھی باتیں کرنا۔
ڈاڑھی پیشاب سے منسڈ وانا۔ (۱۔ محاورہ) ذلت اٹھانا۔ ذلیل ہونا
بے عزت ہونا یا کرنا۔ بطور شرط بھی آتا ہے۔

ڈاڑھی چھوڑنا۔ (۱۔ محاورہ) ڈاڑھی بڑھانا۔ لمبی ڈاڑھی رکھنا۔

ڈاڑھی خدا کا ٹوٹے۔ (۱۔ مقولہ) ڈاڑھی کی تعریف میں کہا جاتا ہے۔
ڈاڑھی دھوپ میں سفید کرنا۔ (۱۔ محاورہ) ناخبرہ کار یا کم عقل ہونا۔
ڈاڑھی رکھنا۔ (۱۔ محاورہ) ڈاڑھی منڈوانا ترک کر دینا۔

ڈاڑھی رنگنا۔ (۱۔ محاورہ) ڈاڑھی کو ہندی یا خضاب سے سرخ یا سیاہ کرنا۔
ڈاڑھی کا ایک ایک پال کرنا۔ ڈاڑھی نونچا۔ بے عزتی کرنا۔

ڈاڑھی نونچا۔ (۱۔ محاورہ) بے عزتی کرنا۔

ڈاک - ۵۔ ۱۔ مٹ [چھٹی رسائی کا حکم۔ پشا (۲) سواری بدلنے کے مقامات
(۳) خبر رسائی کا سلسلہ (۴) گھوڑے یا پاکی وغیرہ کی چوکی (۵) لگاتار
سلسلہ (۶) تے۔ اٹلی۔

ڈاک آنا۔ (۱۔ محاورہ) خطوط آنا۔ متواتر خبر ملنا۔

ڈاک بٹھانا۔ (۱۔ محاورہ) چوکی بٹھانا۔ ہر کاروں کی بند آمد و رفت کا جاری
رہنا۔ تقاضے پر تعلق کرنا۔

ڈاک منگولہ۔ (۱۔ مذ) سرکاری افسروں کے بٹھرنے کی جگہ۔

ڈاک بولنا۔ (۱۔ محاورہ) نیلام کی بولی دینا۔

ڈاک جوکی۔ (۱۔ مٹ) وہ جگہ جہاں ہر کارہ گھوڑا بدلے۔

ڈاک چخانہ۔ (۱۔ فٹ۔ مذ) پوسٹ آفس۔ ڈاک گھر جہاں ڈاک کی
آمد و رفت کا انتظام کیا جاتا ہے۔

ڈاک کاٹکٹ۔ (۱۔ مذ) وہ سرکاری مہر شدہ کاغذ کا پڑھ جو ڈاک کا حصول
ادا کرنے کے لیے چھٹیوں پر لگایا جاتا ہے۔

ڈاک گاڑی۔ (۱۔ مٹ) وہ گاڑی جس میں ڈاک جاتی ہے۔ سیل گاڑی
تیز رو گاڑی۔

ڈاک لگنا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) غلوں اور خبروں کا متواتر آنا (۲) بار بار تے آنا

ڈاک حصول۔ (۱۔ مذ) ڈاک کا حصول۔ ڈاک کے ٹکٹ۔ ڈاک کا خرچ۔

ڈاک والا۔ (۱۔ مذ) پوسٹ مین۔ چھٹی رساں۔ قاصد۔ ہر کارہ۔ ڈاکیا۔

ڈاک۔ (Dock) (۱۔ مذ) گودی۔ بندر۔

ڈاک یارڈ۔ (Dockyard) بندرگاہ کے قریب کھلی جگہ جہاں جہاز
کھڑے رہتے اور ان کی مرمت وغیرہ ہوتی ہے۔

ڈا۔ (۱۔ مٹ) ستار کی گت کا ایک توڑا۔

ڈاب۔ (۵۔ ۱۰۔ مٹ) (۱) ایک قسم کی لمبی گھاس جس کا بان بٹا جاتا ہے۔ پرتلا
(۲) کچا تاریل (۳) کر بند۔

ڈاگر۔ (ڈا۔ بڑ) (۵۔ ۱۰۔ مٹ) (۱) چھوٹی سی جھیل (۲) جوہڑ (۳) تالاب (۴)
نیشب جہاں پانی جمع ہو جاتا ہے (۵) لٹھ دھونے کا برتن۔ سلجی۔

ڈاگ۔ (ڈا۔ بگ) (۵۔ ۱۰۔ مٹ) کنویں کا تازہ پانی (۲) خوف۔ ڈر۔

ڈاٹ۔ (۵۔ ۱۰۔ مٹ) (۱) سوراخ بند کرنے کی چیز۔ کاک (۲) محراب دار پختہ
دروازہ (۳) میخ۔ کیل (۴) محراب کے درمیان کا پتھر (۵) لداؤ کی روک
(۶) محراب (۷) نجوم۔ گہرا۔ سمت۔ گھنا (رق)

ڈاٹ لگانا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) روکنا۔ بند کرنا (۲) محراب بنانا۔ لداؤ کی چھت
کے نیچے عارضی دیوار یا ستون بنانا۔

ڈاٹنا۔ (ڈا۔ ٹ۔ نا) (۵۔ ۱۰۔ مٹ) (۱) ڈاٹ لگانا۔ بند کرنا (۲) کستا۔ خوب بھرتا (۳)
گھوڑے کو روکنا۔ لگام کھینٹنا (۴) ڈرانا۔ دھکانا۔

ڈار۔ (۵۔ ۱۰۔ مٹ) پرندوں کا پیرا (۲) جانوروں کا جھنڈ (۳) ہرنوں کی قطار۔

ڈارلنگ۔ (Darling) (ڈار۔ لنگ) (۱) انگ۔ صفت [پیارا۔

پیاری محبوب۔

ڈاڑھ۔ (۵۔ ۱۰۔ مٹ) جبرے کے موٹے دانت، دانت جن سے غذا
چبائی جاتی ہے۔
ڈاڑھ گرم ہونا۔ ڈاڑھ گرم کرنا۔ (۱۔ محاورہ) کچھ کھانے کو بل جانا۔
رشوت ملنا۔

ڈاڑھ نہ لگنا۔ (۱۔ محاورہ) بیزر پائے نکل جانا۔

ڈاڑھیں مار مار کر روٹنا۔ بلند آواز سے رونا۔

ڈاڑھا۔ (ڈا۔ ڈھا) (۵۔ ۱۰۔ مٹ) لمبی اور بڑی ڈاڑھی (۲) بڑھی ہوئی اینٹیں جو
آئندہ بننے والی دیوار کو ساتھ ملانے کے لیے کھلی چھوڑی جاتی ہیں۔

(۳) باہر کو نکلا ہوا دانت (۴) زیادتی۔

ڈاڑھی۔ (ڈا۔ ڈھی) (۵۔ ۱۰۔ مٹ) (۱) گھوڑی اور رخساروں کے بال۔ ریش
(۲) بڑیاہیل کے درخت کی جٹائیں۔

ڈاڑھی پھسکا کرنا۔ ڈاڑھی صاف کرنا۔ ڈاڑھی کے بالوں کو ہاتھ سے جھٹکانا۔
ڈاڑھی پر ہاتھ پھیرنا۔ (۱۔ محاورہ) کسی اہم یا بڑے کام پر تیار ہونا مستعد
ہونا۔ بعض اوقات کسی پختہ ارادہ کا اظہار کرنے ہونے ڈاڑھی پر ہاتھ پھیرا

ڈانڈا (ڈا۔ کا) (ہ۔ ند) ۱۱) ڈاکوؤں کا گمہ۔ قزاقوں کا دھاوا (۲)
 غارت گری۔
 ڈاکا پڑنا۔ ۱) محاورہ، چرووں کا یکدم حملہ اور ہونا۔ ٹوٹ پڑنا۔
 ڈاکا ڈالنا۔ ۱) محاورہ، ڈاکہ مارنا۔ چھیننا۔ ٹوٹ کر لے جانا۔
 ڈاکا زنی۔ ۱) امٹ، لوٹ مار۔ غارت گری۔
 ڈاکٹر۔ (Doctor) (ڈاک۔ ٹر) (انگ۔ ۱) مذ] صراج طبیب۔
 بتراج (۲) ناضل۔ علامتہ (۳) تعلیمی اعزاز۔
 ڈاکٹر ٹرٹی۔ (ڈاک۔ ٹر۔ ٹرٹی) (انگ۔ ۱) امٹ] علاج کرنے والی ماہر عورت۔
 ڈاکن۔ (ڈاک۔ کن) (ہ۔ ۱) صفت] زیادہ کھانے والی۔ پیٹو۔
 ڈاکو۔ (ڈاک۔ ڈ) (ہ۔ ۱) چور۔ لیٹرا۔ داہزن۔ غارت گر۔ ڈکیت۔ قزاق۔
 ڈاکیا۔ (ڈاک۔ ۱) مذ] ڈاک والا۔ پوسٹ میں۔ جمٹی رساں۔ بہکارہ۔
 ڈال۔ (ڈاک۔ ۱) امٹ] (۱) شاخ۔ ہٹنی (۲) آبپاشی کا ڈول (۳) تلوار کا پھل۔
 تیج بے قبضہ (۴) ڈالنا کا امر۔
 ڈال دینا۔ ۱) محاورہ (۲) بھینک بھونڑنا۔ بگاڑنا (۳) متوجہ کر دینا۔ لگا دینا۔
 ڈال رکھنا۔ ۱) محاورہ، رکھ بھونڑنا۔ دیر لگانا۔ متوی رکھنا۔
 ڈال کا پیکا۔ (ڈاک۔ ۱) مذ] پیر کا پکا ہوا پھل۔
 ڈال کا ٹوٹنا۔ (ڈاک۔ ۱) مذ] ڈال سے خود خود گرنا ہوا پھل۔ تازہ اور عمدہ پھل۔
 ڈال والا۔ (ڈاک۔ ۱) مذ] شاخوں پر رہنے والا یعنی ہندسہ پوزرنہ
 ڈال۔ (ڈاک۔ ۱) مذ] وہ پھل جو فیرائے وائیں یا ڈال کے انگوٹھے میں پیبتے ہیں۔
 ڈال۔ (ڈاک۔ لا) (ہ۔ ۱) مذ] موٹی شاخ۔ ٹھنا۔
 ڈالر۔ (Dollar) (ڈال۔ ٹر) (انگ۔ ۱) مذ] ریاستہائے متحدہ امریکہ کا سکہ۔
 ڈالنا۔ (ڈال۔ نا) (ہ۔ ۱) مض] گرنا۔ بھینکنا (۲) رکھنا دھرنا۔ بنیاد رکھنا۔ ڈول ڈالنا (۳) جوڑنا۔ جمع کرنا (۴) حمل کرنا۔ پر دنا۔ (۵) ہینا (۶) اوڑھنا (۷) ڈھانکا (۸) آشنا سے بیوی بنا کر گھر لے آنا (۹) ملانا۔ لگانا۔
 ڈالی۔ (ڈال۔ لی) (ہ۔ ۱) امٹ] (۱) شاخ۔ ہٹنی (۲) ٹوکری جس میں پھول یا پھل سجا کر مراد کر پیش کیے جاتے ہیں (۳) چمڑے کی پیٹی۔ (رق)
 ڈالی دینا۔ ۱) محاورہ، حاکموں اور امیروں کو نذر دینا۔
 ڈالچا۔ (ڈال۔ م۔ چا) (ہ۔ ۱) مذ] چمان جو کھیتوں کی رکھوالی کے لیے بناتے ہیں۔
 ڈانسٹ۔ (ڈانسٹ۔ ۱) امٹ] چمڑکی۔ دھمکی۔ گھر کی۔ ڈانٹنا کا عینہ۔ امر۔
 ڈانسٹ بتانا۔ ڈانسٹ دینا۔ ۱) محاورہ، گھر کا۔ بلند آواز سے روکنا دھمکی دینا۔
 ڈانسٹ ڈیپٹ۔ (ڈانسٹ۔ ۱) امٹ] چمڑکی۔ دھمکی۔
 ڈانٹنا۔ (ڈانسٹ۔ نا) (ہ۔ ۱) مض] چمڑکی لگنا (۲) روکنا (۳) ڈانٹنا۔
 ڈانڈ۔ (ڈانسٹ۔ ۱) مذ] (۱) نادان (۲) ناؤ کھینے کا بانس (۳) بلیئر جڑے کا گدا۔
 ڈانڈا۔ (ڈانسٹ۔ ڈا) (ہ۔ ۱) مذ] (۱) سرد (۲) کڑی۔ چھڑی۔ نینرے کی کڑی۔ (۳) چھو۔ ناؤ کھینے کا بانس (۴) ریزھ کی ہڈی (۵) کھیت کی مینڈھ۔ (۶) ناپنے کا لیا پیمانہ (۷) ہولی جلانے کی جگہ۔

ڈانڈا (ڈانڈا۔ ۱) مذ] (۱) اسیں ملاپ۔ ربط ضبط (۲) دو ملکوں کی درمیان سرحد (۳) دوسروں کی باہمی دشمنی اور عداوت۔ آدریش۔
 ڈانڈی۔ (ڈانسٹ۔ ڈا) (ہ۔ ۱) مذ] (۱) طرح مانجھی۔ کھویا (۲) ایک قسم کی پہاڑی سواری، جس کے دونوں طرف کلاڑی اور بیچ میں درمی لگی ہوتی ہے (۳) ترازو کی ڈنڈی۔
 ڈانس۔ (ڈانس۔ ۱) مذ] ایک قسم کا بڑا پتھر۔
 ڈانس۔ (Dance) (ڈانس۔ ۱) مذ] رقص۔ ناچ۔
 ڈانسر۔ (Dancer) (ڈانس۔ ٹر) (انگ۔ ۱) مذ] رقص رقص۔ رقص۔
 ناپنے والا یا ناپنے والی۔
 ڈانگ۔ (ڈانسٹ۔ ڈانگ) (ہ۔ ۱) امٹ] ڈنگ۔
 ڈانگ چڑنا۔ ۱) محاورہ، سونے چاندی کے ورق کو کھینے کے نیچے رکھنا۔
 ڈانگی۔ (ڈانسٹ۔ ڈانگی) (ہ۔ ۱) امٹ] صفت] پیٹو۔ بسیار خور۔
 ڈانگ۔ (ڈانسٹ۔ ڈانگ) (ہ۔ ۱) امٹ] سب سے اونچی پہاڑی (۲) پہاڑ کی اونچی چوٹی (۳) لاشی۔ ڈنڈا۔
 ڈانگ۔ (ڈانسٹ۔ ڈانگ) (ہ۔ ۱) امٹ] صفت] مضبوط۔ موٹا تاند۔
 ڈانگر۔ (ڈانسٹ۔ ڈانگر) (ہ۔ ۱) امٹ] (۱) ہند کی ایک قدیم قوم (۲) غیر مذہب قوم (۳) مولیٰ۔
 ڈانگڑا۔ (ڈانسٹ۔ ڈانگڑا) (ہ۔ ۱) امٹ] ذملا جانور۔ بوڑھا جانور۔
 ڈانوال ڈول۔ (ڈانسٹ۔ ڈانوال) (ہ۔ ۱) امٹ] (۱) ڈول۔ (۲) ڈول۔ (۳) ڈول۔ (۴) ڈول۔ (۵) ڈول۔ (۶) ڈول۔ (۷) ڈول۔ (۸) ڈول۔ (۹) ڈول۔
 ڈانگاتا ہوا۔ مذہب۔
 ڈانوال ڈول پھرنا۔ ۱) محاورہ، آوارہ اور سیکار پھرنا۔ مارے مارے پھرنا۔
 ڈاواہ۔ (ڈانسٹ۔ ڈاواہ) (ہ۔ ۱) امٹ] کینہ۔ عداوت۔ دشمنی۔
 ڈائجسٹ۔ (Digest) (ڈا۔ ای۔ جیسٹ) (انگ۔ ۱) مذ] خلاصہ انتخاب۔ مجموعہ مضامین۔
 ڈائریکٹ۔ (Direct) (ڈائری۔ اے۔ ریگٹ) (انگ۔ ۱) صفت] سیدھا راست۔ مستقیم۔ بچھڑ مستقیم۔
 ڈائریکٹ ایجنٹ۔ (Direct Agent) (ڈائری۔ اے۔ ریگٹ) (انگ۔ ۱) مذ] راست اقدام بلل امتیاز
 ڈائریکٹر۔ (Director) (ڈائری۔ اے۔ ریگٹ) (انگ۔ ۱) مذ] (۱) ناظم۔ مہتمم۔ نگران۔ تجارتی کمپنی کی جماعت منتظمہ کا نگران (۲) ہدایت کار۔ قیصر و وزیر۔
 ڈائریکٹری۔ (Directory) (ڈائری۔ اے۔ ریگٹ) (انگ۔ ۱) صفت] سیدھا راست۔ مستقیم۔ بچھڑ مستقیم۔
 ڈائریکٹ ایجنٹ۔ (Direct Agent) (ڈائری۔ اے۔ ریگٹ) (انگ۔ ۱) مذ] راست اقدام بلل امتیاز
 ڈائریکٹر۔ (Director) (ڈائری۔ اے۔ ریگٹ) (انگ۔ ۱) مذ] (۱) ناظم۔ مہتمم۔ نگران۔ تجارتی کمپنی کی جماعت منتظمہ کا نگران (۲) ہدایت کار۔ قیصر و وزیر۔

ڈپارٹمنٹ (Department) (ڈی۔ پارٹ منٹ) (انگ۔ ا۔ مذ)۔
 محکمہ۔ سررشتہ۔ شعبہ۔

ڈپازٹ (Deposit) (ڈی۔ پازٹ) (انگ۔ ا۔ مذ) امانت۔ جمع کرنا۔
ڈپٹ (ڈی۔ پٹ) (ہ۔ ا۔ مٹ) (ا) دھکی (۲) تیز رفتاری (۳) حملہ (۴) چھوڑے کی دوط۔

ڈپٹانا (ڈپ۔ ٹا۔ نا) (ہ۔ مص) تیز گھوڑا دوڑانا۔ پوریہ دوڑانا۔
ڈپٹنا (ڈی۔ پٹ۔ نا) (ہ۔ مص) (ا) دوڑنا (۲) تیز دوڑنا (۳) غصتہ ظاہر کرنا۔
 (۴) دھکانا (۵) حملہ کرنا (۶) ڈانٹنا۔

ڈپٹی (Deputy) (ڈپ۔ ٹی) (انگ۔ ا۔ مذ) نائب۔ مددگار۔
ڈپٹی پوسٹ ماسٹر جنرل (Deputy Post Master General) ڈاکخانہ کے صوبائی افسر اعلیٰ کا نائب جو بالعموم صوبائی صدر مقام پر ہی رہتا ہے۔ (Deputy Superintendent Police) ضلعی حاکم پولیس کا نائب۔ پولیس کا ایک افسر اعلیٰ جو محکمہ پولیس کے ایک سب ڈیویشن کا حاکم ہوتا ہے۔
ڈپٹی کمشنر (Deputy Commissioner) ضلع کا افسر اعلیٰ۔ محکمہ۔

ڈپلوما (Diploma) (ڈپ۔ لو۔ ما) (انگ۔ ا۔ مذ) (ا) سند۔ جامدگی سند (۲) اعزازی سند۔

ڈپلومیٹ (Diplomate) (انگ۔ ا۔ مذ) فن سفارت کا ماہر۔
 موق شاسی سے کام لینے والا۔ زمانہ ساز۔

ڈپلومیسی (Diplomacy) (ڈپ۔ لو۔ سی) (انگ۔ ا۔ مٹ) فن سفارت۔ سیاسی حکمت عملی۔ جوڑ۔ توڑ۔

ڈپوٹ (Dipot) (ڈپ۔ پو) (انگ۔ ا۔ مذ) گودام۔ کونٹی۔
ڈپوٹ (ڈپ۔ پو) (ہ۔ ا۔ مذ) بہت بڑا۔ بہت موٹا (۲) امین گماشتہ (۳) مددگار۔ معاون۔

ڈپوٹیشن (Deputation) (ڈپ۔ ٹی۔ شن) (انگ۔ ا۔ مذ) ذمہ۔ وہ جماعت جو کسی خاص مقصد کے لیے بھیجی جائے (۲) وہ عہدہ دار جو اپنے محکمہ سے کسی دوسری جگہ عاریتاً بھیجا جائے۔

ڈائمنڈ (Diamond) (ڈا۔ ا۔ مڈ) (انگ۔ ا۔ مذ) الماس پیرا۔
ڈائمنڈ جوبلی (Diamond Jubilee) ساٹھ سالہ جشن۔
ڈائن (ڈا۔ ان) (ہ۔ ا۔ مٹ) جادوگر۔ جو خیال ہے کہ بچوں کا کلیجہ کھا جاتی ہے۔ بد صورت عورت۔
ڈائن بھی دس کھر چھوڑ کر کھاتی ہے۔ (ا) شہ (خالم اور بد سماش بھی بڑوسیوں کا کچھ لحاظ رکھتا ہے۔

ڈائنامو (Dynamo) (ڈا۔ اے۔ ن۔ سو) (انگ۔ ا۔ مذ) برقی رو پیدا کرنے والی مشین۔

ڈائنینگ ہال (Dining Hall) (ڈا۔ اے۔ ننگ۔ ہال) (انگ۔ ا۔ مذ) کھانا کھانے کا وسیع کمرہ۔
ڈاؤ۔ وق۔ ا۔ مذ بائیاں لٹھ۔ بائیں طرف۔
ڈایاگرام (Diagram) (ڈا۔ یا۔ گ۔ رام) (انگ۔ ا۔ مذ) (ا) دہندس [شکل (۲) خاکہ۔ نقشہ۔

ڈب

ڈب (ہ۔ ا۔ مٹ) (ا) حبیب۔ تہ بند کا اُوپر کا سرا جو کہیں اُسے لیتے ہیں (۲) قابو۔ قبضہ (۳) گئے بنانے کا پڑا۔ گردن کا پھلا حصہ۔ ڈور۔
ڈبانا (ڈب۔ با) (ہ۔ ا۔ مذ) ڈھکنے والا چھوٹا مندرجہ (۲) پیل کا عارضہ جو اکثر بچوں کو ہوتا ہے۔
ڈبانا۔ وق۔ نص ڈبونا۔
ڈب ڈب (ڈب۔ با۔ او) (ہ۔ مص) ڈو دینے کے قابل۔ آدمی کے قد سے زیادہ پانی ڈب ڈبانا۔ (ڈب۔ نا) (ہ۔ مص) آنکھوں میں آنسو بھر آنا۔
ڈبرا۔ ڈب (ڈب۔ ا۔ مذ) (ا) پانی جمع ہونے کی نشی جگہ (۲) گڑھا۔
ڈبکا (ڈب۔ کا) (ہ۔ ا۔ مذ) کنوئیں سے نکالا ہوا تازہ پانی۔
ڈبکا۔ ڈب (ڈب۔ کا) (ہ۔ ا۔ مذ) خوف خطرہ۔ ڈر۔ اندیشہ۔
ڈبکا نا۔ ڈب (ڈب۔ کا۔ نا) (ق۔ مص) ڈبانا۔ زیر کرنا۔
ڈبکی (ڈب۔ کی) (ہ۔ ا۔ مٹ) غوطہ۔
ڈبکر (ہ۔ ا۔ مذ) چڑے کے ترازو بنانے والا (۲) ایک قوم۔

ڈٹ

ڈٹ (ق۔ صف) زور۔ شدت۔
ڈٹ جانا (ا۔ محاورہ) جم کر بیٹھ جانا۔ مقابلہ پر تیار ہو جانا۔
ڈٹ کر کھانا (ا۔ محاورہ) خوب سیر ہو کر کھانا۔
ڈٹنا (ڈٹ۔ نا) (ہ۔ مص) ٹھنڈا۔ ٹکنا۔ دیر تک ٹھہرے رہنا۔ مقابلہ پر جم جانا۔
ڈٹھ بند (ڈٹھ۔ بند) (ہ۔ ا۔ مذ) جادوگر۔ ساحر۔ کرتب دکھانے والا۔
ڈٹھیا نا (ڈٹھ۔ یا۔ لا) (ہ۔ ا۔ مذ) بیٹا۔ جو دیکھ کے۔

ڈپ

ڈرائی کلین (Dryclean) (انگ - سٹ) پانی کے بغیر کھوپڑی اوریج کی مدد سے صاف کرنا۔
ڈرائیور (Driver) (ڈا - اے - وڈ) (انگ - اے - نڈ) گاڑی چلانے والا۔ گاڑی ہانکنے والا۔ گاڑی بان۔ کوچ بان۔
ڈربئی (Derby) (ڈر - بی) (انگ - اے - سٹ) انگلستان کی سالانہ گھوڑ دوڑ۔
ڈریپ لاک (ڈریپ لاک) (وہ - صف) بزدل - کم جہمت - ہلکا۔
ڈرگ (Drug) (ڈر - رگ) (انگ - اے - نڈ) مفرد دوا۔
ڈرگسٹ (Druggist) (ڈر - گسٹ) (انگ - اے - نڈ) دوا فروش دواساز - عطاری۔

ڈھیٹھیا (یا - ری) (ڈھ - ری) (اے - اے - سٹ) آنکھوں والی عورت۔ بیٹا (۲) کا ایک قسم کی بیبلی۔
ڈیکٹیو (Detective) (ڈ - ٹیک - ٹو) (انگ - صف) سرائخ رسال - جاسوس۔
 ڈیکٹیو پولیس - خفیہ پولیس۔ پولیس کا محکمہ سرائخ رسالی۔
 ڈٹے رہنا۔ (اے - محاورہ) جگہ سے نہ ہٹنا۔ جم کر بیٹھ جانا۔

ط
ڈ

ڈرل (Drill) (ڈر - ریل) (انگ - اے - سٹ) فوجی تربیت۔ قواعد۔
ڈرل ماسٹر (Drill Master) قواعد سکھانے والا استاد۔
ڈرم (Drum) (ڈر - ڈم) (انگ - اے - نڈ) (۱) ڈھول۔ ڈھولک۔ نقارہ۔
 تاشہ (۲) کان کا پردہ (۳) بڑا پیلا۔
ڈرنا (ڈر - نا) (وہ - مص) خوف کھانا۔ دھمکی میں آنا۔
ڈری (ڈر - ری) (وہ - اے - سٹ) خوف۔ ڈر خوف کھاٹی ہوئی۔
ڈریپر (ڈر - پے) (اے - اے - نڈ) عینہ کی بوچھاڑ۔ بہت زور کی بارش۔

ڈر (اے - اے - نڈ) خوف۔ اندیشہ۔ خطرہ۔
ڈر ٹوٹ جانا (اے - محاورہ) جھک مٹ جانا۔ خوف ڈور ہونا۔
ڈر دکھانا (اے - محاورہ) خوف دلانا۔ ڈب جانا۔
ڈر ڈر کے پاؤں رکھنا (اے - محاورہ) جھکتے ہوئے آگے بڑھنا۔
ڈراپ سین (Dropsce) (انگ - نڈ) ایٹھ کے خاتمے کا پردہ (۲) ڈرنے کا خاتمہ یا آخری منزل۔

ڈریس (Dress) (ڈر - ریس) (انگ - اے - نڈ) لباس۔ پوشاک۔
ڈریسنگ (Dressing) (ڈر - رے - سٹ) (انگ - اے - سٹ) (۱) آرائشی دھاری۔

ڈراپر (Droper) (انگ - نڈ) شیشے کی نلی جس کی ایک طرف ریز کونٹری ہوتی ہے اس سے سیال چیز خاص طور پر دوا قطرہ قطرہ چکاتے ہیں۔
ڈرا سو مرا (اے - سٹ) ڈرنے والا نقصان اٹھانے ہیں۔

ڈریسنگ ٹیبل (Dressing Table) (انگ - نڈ) سنگار میز۔
ڈریسنگ روم (Dressing Room) (انگ - نڈ) کپڑے پہننے کا کمرہ۔
ڈریسنگ گون (Dressing Gown) (انگ - نڈ) ایک ڈھیلے ڈھیلے پتھر جو بیچ اٹھ کر یا نہانے کے بعد پہنا جاتا ہے۔

ڈرافٹ (Draft) (ڈر - افٹ) (انگ - اے - نڈ) (۱) خاکہ مسودہ۔
 ڈرافٹنگ سے روپیہ لگانے کا تحریری حکم۔ پیکی - ہنڈی (۳) ایک ٹھیل۔
ڈرافٹس مین (ڈرافٹس مین) (اے - نڈ) نقشہ نویس۔ خاکہ بنانے والا مسودہ نویس۔
ڈرا لو (ڈر - لو) (وہ - ص) ڈریوگ۔

ڈریسی (اے - اے - سٹ) روڈی ایک جیسا کہ بھانا (۲) ہنر کے کناروں پر مٹی کو دست طریقے سے جمانا (اے - سٹ) (اے - سٹ) (اے - سٹ) (اے - سٹ) شہرت کے برعکس ہنڈی اور خوف۔

ڈراما (Drama) (ڈر - ما) (انگ - اے - نڈ) سوانگ۔ ناٹک۔
ڈراماٹسٹ (Dramatist) (اے - سٹ) ڈراما نویس۔ ڈرامہ لکھنے والا۔ ڈرامہ نگار۔

ط
ڈ

ڈرٹ (وہ - صف) ڈرٹھ کا مخفت۔
ڈرٹھ پورا (ڈرٹھ پورا) (ڈرٹھ پورا) ڈرٹھ پاؤں کا باٹ۔
ڈرٹھال (ڈرٹھال) (ڈرٹھ - یالہ - ڈرٹھیل) (وہ - صف) بارش۔
 بڑی ڈرٹھی والا۔

ڈراما (ڈر - ما) (اے - اے - نڈ) ڈرٹھ۔ ڈرٹھ۔
ڈرائنگ (Drawing) (ڈر - انگ) (انگ - اے - سٹ) نقشہ کشی

ڈرائنگ روم (Drawing Room) (انگ - نڈ) نقشہ خاکہ۔ تصویر (جو بے رنگ یا کونٹری ہو)۔
ڈرائنگ روم (Drawing Room) (انگ - نڈ) گول کمرہ۔ دیوان خانہ۔ ملاقات کا کمرہ۔
ڈرائنگ ماسٹر (Drawing Master) (انگ - نڈ) نقشہ کشی یا تصویر کشی سکھانے والا استاد۔

ڈرا ڈنا (ڈرا - اونا) (وہ - صف) خوفناک۔ بھیانک۔ جیسے دیکھ کر ڈرانے۔
ڈرائی (Dry) (ڈر - ای) (انگ - صف) سوکھا۔ خشک۔ پیاسا۔

ڈ

ڈیز۔ (۱۔ مٹ) ہستول یا بندوق چلنے کی آواز۔
ڈیز کرنا (کر دینا)۔ (۱۔ عاودہ) گولی مار دینا۔ بندوق چلانا۔

ڈش

ڈش۔ (Dish) (انگ۔ ۱۔ مٹ) (۱) رکابی۔ قاب۔ قہالی۔ پشتری۔
(۲) کھانا۔ طعام۔ خاص قہر کا کھانا۔
ڈشٹ۔ (س۔ ۱۔ مذ) جان کا دشمن (۲) بُرا۔ بد کردار۔

ڈس

ڈس۔ (س۔ ۱۔ مٹ) (۱) ترازو کی ڈوری جس میں یلٹے بندھے ہوتے ہیں۔
(۲) ڈسٹا کا امر۔

ڈس ہوا پانی نہیں مانتی۔ (۱۔ مٹ) بڑا عالم ہے جس کو نقصان پہنچائے تباہ کر دیتا ہے۔

ڈسپلن۔ (Discipline) (انگ۔ ۱۔ مذ) انضباط۔ ضبط و نظم۔
ڈسپنسر۔ (Dispenser) (انگ۔ مذ) نئے نئے کے مطابق دوا بنانے والا۔ دواساز۔

ڈسپنسری۔ (Dispensary) (انگ۔ ۱۔ مٹ) (۱) پھوٹا شفا خانہ۔
(۲) دوا خانہ۔

ڈسپچ۔ (Despatch) (انگ۔ ۱۔ مذ) (۱) روانگی۔ ارسال۔
(۲) مراسلہ۔ سرکاری رُو بکار۔

ڈسپچ رجسٹر۔ (Despatch Register) وہ رجسٹر جس میں
رہا برہنے بھیجنے والی چیزوں کا اندراج ہو۔

ڈسٹرکٹ۔ (District) (انگ۔ ۱۔ مذ) ضلع۔
ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر۔ (انگ۔ مذ) ضلع کے محکمہ تعلیم کا
افسر اعلیٰ۔

ڈسٹرکٹ فنڈ۔ (District Fund) وہ روپیہ جو ڈسٹرکٹ
بورڈ کے کاموں کے لیے ڈسٹرکٹ بورڈ کی تحویل میں رہتا ہے۔

ڈسٹرکٹ کونسل۔ (انگ۔ مٹ) ضلع کا انتظام کرنے والی نمائندہ جماعت
نئے نظام کے مطابق ڈسٹرکٹ بورڈ کی بجائے کام کرنے والی جماعت۔

ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ۔ (District Magistrate) پولیس
ضلع کا حاکم اعلیٰ۔ ڈپٹی کمشنر۔

ڈسٹریبیوٹر۔ (Distributor) (انگ۔ ۱۔ مذ) تقسیم کار وہ شخص یا
وہ ادارہ جو تقسیم کاری کا کام کرے۔

ڈسٹلری۔ (Distillery) (انگ۔ ۱۔ مٹ) مشراب کا
کارخانہ۔ بیٹی۔

ڈسٹمبر۔ (Distemper) (انگ۔ ۱۔ مذ) رنگ و روغن کرنا دیوار
وچیزہ پر۔

ڈسچارج۔ (Discharge) (انگ۔ ۱۔ مذ) (۱) برطرفی۔ موقوفی۔
(۲) رٹائی۔ خلاصی۔ چھٹکارا (۳) اخراج نکاس۔

ڈسک۔ (Desk) (انگ۔ ۱۔ مذ) ڈھولان میز۔
ڈسکاؤنٹ۔ (Discount) (انگ۔ ۱۔ مذ) کمیشن۔ کٹوتی۔ بٹہ۔
ڈسٹیس۔ (Dismiss) (انگ۔ صفت) [خارج۔ معزول۔ برطرف۔
ڈسٹا۔ (ڈس۔ نا) (س۔ ۱۔ مٹ) کسی ذہریلے جانور کا کاشنا۔ سانپ کا کاشنا۔

ڈف

ڈف۔ (Duff) (انگ۔ ۱۔ مذ) ڈھولک۔
ڈفالی۔ (ڈفالی) (انگ۔ ۱۔ مذ) ڈف بجانے والا۔ ڈفالی۔
ڈفنز۔ (Duffer) (ڈف) (انگ) صفت) نالائق۔ بے کار۔ بے وقوف۔
ڈفلی۔ (۱۔ مٹ) چھوٹا دف۔

ڈک

ڈک۔ (ق۔ ۱۔ مٹ) نظر۔ نگاہ۔
ڈک۔ (س۔ ۱۔ مذ) ٹکا۔ گھونسا۔
ڈکار۔ (ڈکار) (س۔ ۱۔ مٹ) معده کی وہ ہوا جو منہ کے راستے خارج ہو۔

ڈکار جانا۔ (۱۔ عاودہ) کسی کے مال کو ہضم کر جانا۔ خیانت کرنا۔
ڈکار نہ لینا۔ (۱۔ عاودہ) ہضم کر جانا کسی چیز کا پتہ نہ لگنے دینا بسترانہ
نہ پانے دینا۔

ڈکارنا۔ (ڈکارنا) (س۔ ۱۔ مٹ) (۱) معده کی ہوا منہ سے خارج کرنا۔ ہضم کرنا۔
(۲) دھاڑنا۔ گرجنا۔ شیر کا بولنا۔

ڈکٹیٹر۔ (Dictator) (انگ۔ ۱۔ مذ) آمر۔ حاکم مطلق۔
مطلق العنان حکمران۔

ڈکٹیشن۔ (Dictation) (انگ۔ ۱۔ مٹ) (۱) ہدایت (۲) اِطلا۔
ڈکرا۔ (ڈکرا) (س۔ ۱۔ مذ) بوڑھا۔

ڈکرانا۔ (ڈکرا) (س۔ ۱۔ مٹ) (۱) کراہنا۔ چلانا۔ فریاد کرنا (۲) چھوٹ
پھوٹ کر رونا (۳) شیر کا ڈکارنا۔

ڈکرنا۔ (ڈکرنا) (س۔ ۱۔ مٹ) بوڑھی عورت۔ ضعیفہ۔
ڈکشنری۔ (Dictionary) (انگ۔ ۱۔ مٹ) لغت۔ فرہنگ۔ گاموس

ڈکوت۔ (ڈکوت) (س۔ ۱۔ مذ) ایک ہندو قوم جس کے افراد باپ کی طرف
سے برہمن اور ماں کی طرف سے گوالے جوتے ہیں (۲) بیچ برہمن۔
ڈگورا۔ (ڈگورا) (ق۔ صفت) بائیں ہاتھ سے کام کرنے والا۔

ڈگوری۔ (ق۔ صفت) (۱) بائیں ہاتھ سے کام کرنے والی (۲) پھڑ۔ زنبور۔
ڈگوسٹا۔ (ڈگوسٹا) (س۔ ۱۔ مٹ) (۱) غٹا ضبط۔ لی جانا۔ کلہر۔ تختیر۔
ڈکی۔ (ق۔ ۱۔ مذ) حملہ۔ ہڑ۔ دھاوا۔ اورس۔

ڈل

ڈل - (1-0) مذ - دستہ - گروہ (2) کشمیر کی ایک مشہور جھیل (3) دولت (4) سوکھا کنواں
 ڈلا - (ڈولا) (1-0) مذ - بڑا سا ٹکڑا (2) بڑے حجم کی چیز (3) ڈھیلا -
 ڈلاسا - (1-0) مذ (1) بڑا سا (2) سونے کے ڈلے جیسا (3) خالص (4)
 چمکدار رنگ والا -
 ڈلا - (ڈل) (لا) (1-0) مذ (1) شاخوں کا بنا ہوا ٹوکرا (2) ٹوکرا جو شادی کے
 دن دولہا کے ساتھ دلہن کے ہال آتا ہے - (3) لکٹی - فربھی عورت -
 ڈلانا - (ڈلانا) (2-0) موص [ہانا - جنبش دینا - پھرانا (3) حیران کرنا -
 ڈلاؤ - (ڈلاؤ) (1-0) مذ [غلاطت پھینکنے کی جگہ - کھورا -
 ڈلک - (ڈلک) (1-0) موص [چمک - ڈمک - آب و تاب -
 ڈلکنا - (ڈلکنا) (2-0) موص [چمکنا - دکننا - جگمگانا -
 ڈلنا - (ڈلنا) (2-0) موص [کرنا - کسی چیز میں پڑنا -
 ڈلوری - (Delivery) (1) (1) موص [عمل (2) ڈاک
 کی تقسیم (3) کسی چیز کی تفویض -
 ڈلی - (ڈلی) (1-0) موص (1) کسی چیز کا ٹکڑا (2) خرما - بالوشا ہی یا مسری
 کا ٹکڑا -
 ڈلیا - (ڈلیا) (1-0) موص (1) چھوٹی ٹوکری (2) ذرا سا ٹکڑا -

ڈنگ

ڈنگیت - (ڈنگیت) (1-0) مذ [کٹیڑا - رہزن - ڈاکو -
 ڈنگیتی - (ڈنگ) کے - (تی) (1-0) موص [قرزائی - رہزنی (2) چار سے زیادہ -
 پھولوں کا ڈنگہ ڈالنا - سرقہ بالاجبر -
 ڈنگ - (1-0) مذ لمبا قدم -
 ڈنگ بھرنانا - (1-0) مذ [قدم اٹھانا - تیز چلنا -
 ڈنگ - (1-0) مذ [مٹکا گھونسا -
 ڈنگا نا - (ڈنگا نا) (2-0) موص [جگہ سے ہٹانا - جگہ سے بے جگہ کرنا - پھسلانا -
 ڈنگد کار کا بانی پینا - (ڈنگد کار) (1-0) موص [ایک دم میں بہت سا پانی پینا - بڑے
 بڑے گھونٹ تے کر پانی پینا -
 ڈنگد گانا - (ڈنگد گانا) (2-0) موص [بڑے بڑے گھونٹ لینا - ایک سانس
 میں پی جانا -
 ڈنگدگی - (ڈنگدگی) (1-0) موص (1) بندر والوں کی ڈنگلی - ڈوڑو -
 (2) ڈونڈی - ڈھنڈورا - کھنچری -
 ڈنگدگی بجانا - (1-0) موص [ڈھنڈورا بجانا - تہنیر کرنا -
 ڈنگر - (ڈنگر) (1-0) موص [راستہ - راہ - سڑک (2) روش - انداز - طرز -
 ڈنگر بتانا - (1-0) موص [راستہ بتانا - روش پر ڈالنا - ہدایت کرنا -
 ڈنگرا - (ڈنگرا) (1-0) مذ [ٹوکرا - بانس کا بڑا سا چھابہ -
 ڈنگرنا - (ڈنگرنا) (2-0) موص [چلا جانا - روفچتر ہونا -
 ڈنگری - (Degree) (1-0) موص (1) کامیابی کی سند -
 درجہ - منزل -
 ڈنگری کالج - (1-0) مذ [وہ کالج جہاں بی - اے اور اُس سے اوپر کی تعلیم دی جاتی ہو -
 ڈنگری - (ڈنگری) (1-0) موص [انگریزی (Decree) کا بڑا ہوا
 حکم - سرکاری فیصلہ - جیت -
 ڈنگری اجبالی - (1-0) موص [مشترک ڈنگری -
 ڈنگری اقبالی - (1-0) موص [اقبال پر دی ہوئی ڈنگری -
 ڈنگری مانا - (1-0) موص [مقدمہ جیتنا - فتح پانا - قطعی فیصلہ حاصل کرنا -
 ڈنگری جاری کرنا - (1-0) موص [حکم دینا - فیصلہ کرنا -
 ڈنگری وار - (1-0) مذ [وہ شخص جس نے مقدمہ میں پر ڈنگری حاصل کی ہو -
 ڈنگ - (ڈنگ) (1-0) موص [ہلنا ہوا - ڈولتا ہوا - لرزنا - کا پنتا ہوا -
 ڈنگا نا - (ڈنگ) (1-0) مذ [گانا - (2) موص [ڈونکا - کا پینا - ہلنا - لرزنا - لٹکھڑانا -
 ڈنگن - (1-0) مذ [پھلی کے شکار کا ایک آلہ -
 ڈنگنا - (ڈنگنا) (2-0) موص [سبر کرنا - ہٹنا - جگہ سے کھسکنا - بے جگہ ہونا -
 پھسل کر نیچے کرنا -
 ڈنگ - (ڈنگ) (1-0) موص [اعلان - ڈھنڈورا -
 ڈنگے ڈنگ - (1) [قدم قدم - قدم قدم پر -

ڈم

ڈم (Dim) (1) (1) موص [ڈھنڈلا - پھیکا - بے نور - دھیمی - مدغم -
 ڈم - (ڈم) (1-0) مذ [ڈنگدگی - ڈورو -
 ڈمبی - (Dummy) (1-0) موص [(1) جعلی یا مصنوعی چیز
 جھوٹ موٹ کا پلندہ (2) [تماش [فرضی کھلاڑی جس کی بازی کھول
 دی جاتی ہے اور اس کا ساتھی اُسے کہیلتا ہے (3) اخبار یا کتاب
 کا نمونہ -

ڈن

ڈینٹسٹ - (Dentist) (1) (1) مذ [دندان ساز - مصنوعی دانت
 بنانے والا - دانتوں کے علاج کا ماہر -
 ڈینٹل ہسپتال - (Dental Hospital) (1) (1) مذ [ڈن - ہسپتال -
 ڈن - (1-0) مذ [دانتوں کے امراض کا ہسپتال -
 ڈنٹھل - (ڈنٹھل) (1-0) مذ [جڑوں والی سبزی کی وہ شاخ جس پر پھول
 اچلتے ہیں (2) [ٹہنی - شاخ -
 ڈنڈ - (1-0) مذ (1) ڈنڈر - بانو (2) ایک قسم کی درزش جو پہلوان کرتے ہیں (3)

دو

جرمان - تادان -

ڈنڈ بھرننا - (۱) محاورہ) جرمانہ دینا - تادان بھرننا۔

ڈنڈ پھیل - (۱) مذ) ڈنڈ پھیلنے والا - وہ شخص جو صرف ڈنڈ پھیلنے کی ورزش کرتا ہو - پہلوان -

ڈنڈ سلیٹنا - (۱) محاورہ) ڈنڈوں کی ورزش کرنا۔

ڈنڈ ڈالنا - (۱) محاورہ) حصول لگانا - ٹیکس عائد کرنا (۲) کسی کے ذمہ جرمانہ اور تادان ڈالنا۔

ڈنڈا - (ڈن - ڈا) (۱) مذ) (۱) ہاتھ میں رکھنے کا سونٹا (۲) جینڈ کی لکڑی (۳) چار دیواری (۴) احاطہ - لامٹی - گدگا۔

ڈنڈا ڈونڈی کرنا - (۱) محاورہ) ہاتھ پاؤں بڑھ کر زمین سے اوپر اٹھالینا۔

ڈنڈا پھینچنا - (۱) محاورہ) (۲) دیوار پھینچنا (۳) عداوت کرنا (۴) حد متحرک کرنا۔

ڈنڈے بچاتے پھرننا - (۱) محاورہ) آوارہ اور بیکار پھرتے رہنا - مارے مارے پھرننا - بے مقصد پھرننا۔

ڈنڈوت - (ڈن - ڈوت) (۱) مذ) سمجھ - جبہ سائی یا تھا ٹیکنا - (۲) آداب - تسلیم - بندگی۔

ڈنڈو کا - (ڈن - ڈو) (۱) مذ) ٹوٹی ہوئی تلوار - جس کے پھل کا ذرا سا ٹکڑا دستے میں لگا رہ جائے۔

ڈنڈی - (ڈن - ڈی) (۱) مذ) (۱) دستہ - قبضہ - ہتھی (۲) وہ لکڑی جس میں ترازو کے دونوں پڑے ڈوری سے آویزاں ہوتے ہیں -

(۳) بار سنگار کے پھولوں کا سُرخنی مائل حصہ (۴) آواز تامل (۵) ایک قسم کی بالی (۶) چھوٹا راستہ (۷) کلیر - دھاری -

ڈنڈی مارنا - (۱) محاورہ) چالاک سے ترازو کی ڈنڈی کو جھکا دینا اور وزن کم کرنا۔

ڈنڈیا - (ڈنڈ - یا) (۱) مذ) بازار کی آمدنی وصول کرنے والا۔

ڈنڈیر - (ڈن - ڈیر) (۱) مذ) سیدھی کلیر - سیدھا۔

ڈنڈیر - (ڈن - ڈیر) (۱) مذ) (۲) شائیز - رات کا کھانا۔

ڈنڈیر - (۱) مذ) ڈنڈ - بازو - ورزش کی ایک قسم۔

ڈنڈک - (۱) مذ) (۱) ڈنڈ - بازو - ورزش کی ایک قسم۔ (۲) نیش ڈنڈک (۳) نیش - لوجے کا قلم۔

ڈنڈک مارنا - (۱) محاورہ) (۱) کسی زہریلے جانور کا کاٹنا (۲) کسی دشمن کا آزار پہنچانا۔

ڈنڈکا - (ڈن - ڈا) (۱) مذ) (۱) نقارہ - بجانے کی لکڑی - نقارہ - شہرت ڈنڈکا بجانا - (۱) محاورہ) دھوم مچانا - شہرت ہونا۔

ڈنڈکا ڈالنا - (۱) محاورہ) سُرخ لڑانا - سُرخ کا دوسرے سُرخ کو چوک مارنا۔

ڈنڈکا ہونا - نقارہ بجانا۔

ڈنڈکے کی چوٹ کھنا - (۱) محاورہ) کھل کھلا کھنا - صاف صاف کہہ دینا۔

ڈنڈکینی - (ڈنڈک - نی) (۱) مذ) (۱) سمٹ [ڈاٹن] جھگڑا اور سمٹ۔

ڈنڈکر - (ڈن - ڈکر) (۱) مذ) (۱) مولتی - جیران - چرپائے۔

ڈنڈکیا - (ڈنڈک - یا) (۱) مذ) (۱) سمٹ [پانی نکالنے کا دستہ والا برتن (۲) چھوٹی کشتی - ڈنڈکا۔

ڈوا - (ڈو - ڈا) (۱) مذ) لکڑی کا بڑا ٹیچہ - بڑی ڈوٹی۔

ڈوا ڈنڈر - (Divider) (انگ - ا) (۱) مذ) (۱) قاسم - تقسیم کار (۲) ریاضی میں مقسوم علیہ (۳) پرکار جو ناسنے کے لئے استعمال ہوتا ہے۔

ڈوب - (ڈو - ڈا) (۱) مذ) (۱) غوطہ - ڈوبی (۲) شوب (۳) پکڑے کو رنگ میں ڈوبنا (۴) قلم کو سیاہی میں بھرننا (۵) ڈوبنا کا اُسر (۶) غشی (۷) تباہ۔

برباد (۸) ڈوبا ہوا آدمی (۹) نشیب کی زمین جو پانی میں ڈوبی کرتی ہے ڈوبنا کا اُسر۔

ڈوب جانا - (۱) محاورہ) (۱) غرق ہوجانا۔ دریا میں بہ جانا (۲) غائب ہوجانا (۳) روپیہ ضائع ہوجانا (۴) تباہ و برباد ہوجانا (۵) رسوا ہونا۔ ناکام ہونا

ڈوب کر اچھلنا - (۱) محاورہ) غوطہ کھا کر اچھلنا۔

ڈوب مرن - (کلہ اُسر) (۱) دغان ہو - مرنہ نوکھا (۲) نجات سے مرجا۔

ڈوب مرننا - (۱) محاورہ) (۱) شرم وغیرت سے مرجانا (۲) پانی میں ڈوب کر مرجانا۔

ڈوبا - (ڈو - ڈا) (۱) مذ) (۱) قلم کو روشنائی میں ڈوبنا (۳) نشیب کی زمین جو پانی میں ڈوبی رہے۔

ڈوبا بٹس کیر کا - کائے پوت کمال - (۱) مثل) نالائق بیٹے نے ج خاندان کا نام ڈوبو دیا۔

ڈوبا بھرننا - قلم کو سیاہی میں ڈوبنا۔

ڈوبا نام اچھالنا - (۱) محاورہ) (۱) از سر نو عزت اور ناموری پیدا کرنا۔ (۲) نام روشن کرنا (۳) گم نامی کی حالت سے شہرت پانا۔

ڈوبا ہونا - (۱) محاورہ) کسی خیال میں محو ہونا - نشے میں چور ہونا۔

ڈوبتی نا ڈرتانا - (۱) محاورہ) بگڑی حالت درست کرنا۔

ڈوبتے کو تنکے کا سہارا - [اڑش] مصیبت زدہ ذرا سے سہارے کو غنیمت جانتا ہے۔ یا بس آدمی کو ذرا سی مدد بھی کام دے جاتی ہے۔

ڈوبنا - (ڈوب - نا) (۱) مذ) (۱) غرق ہونا (۲) دریا بگرد ہونا (۳) چھینا - غروب ہوجانا (۴) ضائع ہونا - روپیہ وصول نہ ہونا (۵) نیست و نابود ہونا (۶) تباہ و برباد ہونا۔ دیوار ٹکنا - نقصان ہونا (۷) ذلیل و خوار ہونا (۸) بڑے خاندان سے سابقہ پڑنا (۹) ناکام رہنا (۱۰) کسی خیال میں محو ہونا (۱۱) رسوا ہونا۔ بدنام ہونا (۱۲) پسینہ میں غرق ہونا۔

ڈوبتی ہوئی اسامی - (۱) صفت) ایسا مقدمہ جو عربی کی وجہ سے رقم ادا کرنے کے قابل نہ ہو۔

ڈوبتی ہوئی رقم ہمری ہونا - ایسی رقم واپس بل جانا جس کے ملنے کی امید جاتی رہی ہو۔

ڈوڈا - (ڈو - ڈا) (۱) مذ) (۱) سخت چھلکا جس کے اندر بیج ہوتے ہیں۔ (۲) پوست، کپاس وغیرہ کا پھل۔

ڈور - (ڈو - ڈا) (۱) صفت) (۱) دھاگہ جس سے پتنگ اڑاتے ہیں۔ سوت کی باریک رسی (۲) بٹا ہوا مضبوط دھاگہ۔

ڈور پر لگانا۔ (۱۔ محاورہ) راہ پر لانا۔ ڈھب پر لانا۔ مانوس کرنا۔ ہلانا۔ سدھانا۔

ڈور کو مانجھا دینا۔ (۱۔ محاورہ) پسا ہوا شیشہ چاولوں کی پیچ میں ملا کر دھاگے ملنا۔

ڈور کو سلجھانا۔ (۱۔ محاورہ) الجھی ہوئی ڈور کے پھندے نکالنا (۲) کسی مشکل کے حل کی تدبیر سوچنا۔

ڈور ہلانا۔ فریفتہ ہونا۔ عاشق ہونا۔ مائل ہونا (۲) غالب ہونا۔

ڈورا۔ (ڈو۔ را۔) (ہ۔ ا۔) مذ [۱۱] دھاگا (۲) تار (۳) خط۔ کثیر (۴) تلوار کی دھار (۵) ڈنڈی والا کٹورا (۶) وہ ناپ جو ڈور سے سے لیتے ہیں (۷) گرم گھی

کو پکے ہوئے حادلوں میں ڈالنا (۸) آنکھ کی سُرخی رگیں (۹) کسی کو محبت کی نظر سے دیکھ کر اپنی طرف مائل کرنا (۱۰) سُرخی کبیر (۱۱) جال۔ دام۔ فریب

ڈورا ڈالنا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) دام محبت میں پھنسانا (۲) مائل کرنا (۳) دھاگا بردنا۔

ڈور سے ٹھوٹھا۔ تار یا بیداری سے آنکھوں کا سُرخی ہو جانا۔

ڈور سے چھوڑنا۔ جامل یا سُرخی کبیر آنکھ کے کوپا سے باہر تک کھینچنا۔

ڈور سے ڈالنا۔ (۱) محاف میں تانگے ڈالنا (۲) فریب دے کر تادمہ محبت کرنا (۳) بال گو نہنا (۴) چڑیا یا مینا کا پے در پے چھپانا۔

ڈورا۔ (ق۔ ا۔) (مٹ۔) ہک۔ خوشبو۔

ڈورا۔ (ق۔ ا۔) (مٹ۔) آنکھ کا ڈھلا۔

ڈورو۔ (ڈو۔ رو۔) (ہ۔ ا۔) (مٹ۔) ڈنگ۔ ڈرو۔

ڈوری۔ (ڈو۔ ری۔) (ہ۔ ا۔) (مٹ۔) رستی دھاگا (۲) پانی بھرنے کی رستی (۳)

جاربانی کی باشتی (۴) جسم رب (۵) وہ نیشہ جس سے کاغذ باندھتے ہیں۔

ڈوری ڈھینٹی چھوڑنا۔ (۱۔ محاورہ) کسی کی طرف سے غفلت برتنا (۲) بے زور ہو جانا۔

ڈوری کھینچنا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) یاد کرنا۔ طلب کرنا۔ بلانا۔

ڈوریا۔ (ڈو۔ ریا۔) (ہ۔ ا۔) (مٹ۔) ایک قسم کا باریک دھاری دار کپڑا (۲) کتوں

کا محافظ۔ شکاری کتوں کو سدھانے والا۔

ڈوسا۔ (ق۔ صفت) بڑھا۔

دوسد۔ (ہ۔ ا۔) (مٹ۔) حیرانات میں پھیپھڑوں کی ایک بیماری (۲) بڑاسا گہرا گڑھ۔

ڈوکر۔ (ق۔ صفت) اکبند۔

ڈوکرا۔ (ڈو۔ گ۔) (ہ۔ ا۔) (مٹ۔) بڑھا۔ ضعیف آدمی۔

ڈوگٹا۔ (ڈو۔ گ۔) (نا۔) (ہ۔ ا۔) (مٹ۔) تے کرنا۔ واپس پلٹ دینا (۲) پینا۔

بہت سا پانی یکدم لی جانا۔ چوست۔ بروت۔

ڈول۔ (ہ۔ ا۔) (مٹ۔) کسوٹیش سے پانی نکالنے کا برتن جو لوہے یا چمڑے کا ہوتا ہے۔

ڈول۔ (ہ۔ ا۔) (مٹ۔) (۱) ڈھنگ۔ طور۔ طریقہ انداز۔ وضع۔ قطع۔

ڈھا پنر کسی چیز کا کچا نقشہ (۳) غور۔ شکل صورت (۴) تمیز تک۔

ڈ (۵) کھیت کی ڈوٹی سرد۔ بارگھ (۶) جماع۔ مباشرت۔

ڈولی پر لانا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) سڈول بنانا (۲) ڈھب پر لانا (۳) کام

کے قابل بنانا۔ راہ پر لے آنا۔

ڈول ڈالنا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) بنیاد قائم کرنا۔ ڈھا پنر تیار کرنا (۳) ڈھب نکالنا۔

ڈول سے لگانا۔ موقع سے لگانا۔ ڈھنگ سے لگانا۔ ترتیب سے کرنا

ڈولا۔ (ڈو۔ لا۔) (ہ۔ ا۔) (مٹ۔) (۱) کھیت کی بارگھ۔ مینڈھ۔ کھیت کی چادر واری (۲) خراج کا تخمینہ (۳) ایک قسم کی پھلی (۴) شانے اور کہنی کا درمیانہ حصہ۔

ڈولا۔ (ڈو۔ لا۔) (ہ۔ ا۔) (مٹ۔) زنائی سواری کا نام (۲) ایک قسم کی گول پانکی۔ گھپپال (۳) جھولا۔

ڈولا اچھلنا۔ (۱۔ محاورہ) کسی عورت کا دوسری عورت کے شوہر سے آشنائی یا شادی کر لینا (۲) ڈولی میں بیٹھنے کو طرزاً اور سخاوت سے کہتے ہیں۔

ڈولا جانا۔ (۱۔ محاورہ) ڈولن کی سواری جانا۔

ڈولا دینا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) کسی بادشاہ یا امیر کی زوجیت میں خسر کے ساتھ بیٹی دینا (۲) عزیز آدمی کا کسی امیر سے بیٹی بیاہنا۔

ڈوچی۔ (ڈول۔ چی۔) (ہ۔ ا۔) (مٹ۔) (۱) ڈول کی تصنیف (۲) پانی کھینچنے کا پھینارتن ڈولن مار۔ (ق۔ صفت) ڈولنے والا۔

ڈولنا۔ (ڈول۔ نا۔) (ہ۔ ا۔) (مٹ۔) (۱) چلنا پھرننا۔ ہلنا (۲) آدرا پھرنا منڈلانا۔ جھگٹنا (۳) حرکت کرنا (۴) ڈولا۔ گہوارہ۔ ایک قسم کا برتن۔ گھی ڈالنے کا برتن۔

ڈولنا۔ (ڈول۔ نا۔) (ہ۔ ا۔) (مٹ۔) (۱) گھڑنا۔ ڈول بنانا (۲) ڈھا پنر تیار کرنا۔ خاکہ بنانا۔

ڈولی۔ (ڈو۔ لی۔) (ہ۔ ا۔) (مٹ۔) پردوں والی زنائی سواری۔ محافظ (۲) جهاز کا مستول (ق۔)

ڈولی نہ کہا رنی بی بی بھی ہیں تیار۔ (ایش) [سامان کچھ نہیں ارادے بڑے بڑے۔

ڈوم۔ (ہ۔ ا۔) (مٹ۔) (۱) منفی۔ میراثی۔ قوال۔ کبیر ایک قوم جس کا پیشہ گانا بجانا ہے۔

ڈوم اور جینا منہ لگا بڑا۔ (ایش) [دونوں کا شوق پڑ جائے تو چھوٹتا نہیں۔

ڈوم پینا۔ ڈوم کا پیشہ (۲) ڈوم جیسی حرکات و عادات (۳) بے جا و خوشامد اور چالوسی۔

ڈومنی۔ (ڈوم۔ نی۔) (ہ۔ ا۔) (مٹ۔) (۱) منقینہ۔ میراث۔ ڈوم کی بیوی (۲) ایک قسم کا برندہ۔ ٹیالے رنگ کی پڑا بے ڈھنڈ بھی کہتے ہیں۔

ڈومنی کا پوت چپنی بجائے (۱) ایش) آدمی کی اعلیت اس کے

ڈومنی ذات آپ ہی تائے [قول و فعل سے ظاہر ہو جاتی ہے۔

ڈونڈا۔ (ڈول۔ ڈا۔) (ہ۔ ا۔) (مٹ۔) (۱) ٹرے ہوئے سنگوں والا ہیل یا گائے (۲) ایک سنگ والا ہیل۔

ڈونڈی۔ (ڈول۔ ڈی۔) (ہ۔ ا۔) (مٹ۔) ڈھنڈورا۔ منادی۔ شہرت۔

ڈونڈی سبھا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) کسی چھپے معاملے کو شہرت دینا (۲) منادی کرنا۔ ڈھنڈورا بٹینا۔ اعلان کرنا۔

ڈھا - (دہ-۱۰-مٹ) (۱) دریا کی تباہ کاری۔ دریا کا کنارے پر کی زمین کو بہا لے جانا (۲) زمین کا زیر آب ہونا (۳) ڈھانا کا امر۔
ڈھا دینا - (۱) عمارت کو گرا دینا۔ مہندم کر دینا۔
ڈھا با - (ڈھا با) (دہ-۱۰-مٹ) (۱) ادنیٰ حال۔ دام (۲) پرچھتی (۳) ہندوؤں کا مطبخ (۴) مرنوں کو بند کرنے کا ٹھاپا۔
ڈھا پٹی - (دہ-۱۰-مٹ) کپوتروں یا مرغیوں کا ڈرہا۔
ڈھا پنا - (ڈھا پ) (نا) (دہ-۱۰-مٹ) ڈھانپ دینا۔ چھپا دینا۔ اوپر سے کپڑا یا برتن ڈال دینا۔ فصیح ڈھا پنا۔
ڈھاٹا - (ڈھاٹا) (دہ-۱۰-مٹ) کپڑے کی بچی جو منہ چھپانے یا ڈاڑھی بٹھانے کے لیے پہرے پر باندھی جائے (۲) کپڑا جو مڑے کے منہ پر باندھا جائے۔
ڈھاٹی - (ڈھاٹی) (دہ-۱۰-مٹ) (۱) وہ بیٹی جو لگام کی بجائے گھوڑے کے منہ میں دی جلتے (۲) بھانسی۔ بھندا
ڈھانی (چوڑھاٹا) (دینا) لگانا۔ (۱) گھوڑے کے منہ میں لگام کی بجائے کپڑا دینا (۲) کسی کام نہ بند کرنا۔ میت کے منہ کو کپڑے سے باندھنا۔
ڈھار - (دہ-۱۰-مٹ) ایک قسم کی بالی (۲) ڈھال (۳) (دہ-۱۰-مٹ) اناج کا ڈھیر۔
ڈھارس - (ڈھا۔ رس) (دہ-۱۰-مٹ) (۱) تسلی۔ تسلی (۲) سہارا۔ (۳) استغلل صبر (۴) جرات۔ ہمت۔ آسرا۔
ڈھارس بندھنا - (۱) عمارت قائم ہو جانا۔ دل مضبوط ہونا۔
ڈھارس دینا - حوصلہ افزائی کرنا۔ تقویت دینا۔ دلاسا دینا۔ ہمت بندھانا۔
ڈھاڑی - (ڈھا۔ ڈی) (دہ-۱۰-مٹ) میرانی۔ ڈوم۔ گویا۔ سازندہ۔
ڈھاک - (دہ-۱۰-مٹ) ایک درخت جس کے بڑے بڑے پتے اور سرنج رنگ کے پھول ہوتے ہیں۔ بلاس۔ پھجھا۔
ڈھاک پھولنا - (۱) عمارت ڈھاک میں پھول آنا جس سے تمام جنگل سرنج نظر آتا ہے۔
ڈھاک کے مین بات - (۱) (دہ-۱۰-مٹ) (۱) سدا ایک حال پر رہنا (۲) ہمیشہ منگیس نظر آنا (۳) جب کوئی شخص اپنی بات پر اڑا رہے اس وقت کہتے ہیں
ڈھال - (دہ-۱۰-مٹ) (۱) نشیب۔ نیچی جگہ۔ ڈھلوان (۲) سپر۔ تلوار۔ تیر۔ نیزے کا دار رکھنے کا ایک چوڑا ہتھیار (۳) طور طریقہ۔ وضع (۴) رسم و رواج (۵) (ق) سایہ۔
ڈھال دینا - (۱) عمارت پلٹ کر وہی الزام دینا۔ آوازہ کنا (۲) کسی دھات کو پگھلا کر تانے میں ڈالنا (۳) انسان یا جانور کو کسی ڈھب پر لے آنا۔
ڈھال کر گالیاں دینا - (۱) عمارت (ظاہری طور پر کسی کو لیکن حقیقت میں کسی اور کو گالیاں دینا۔
ڈھال ہونا - (۱) عمارت پناہ ہونا۔
ڈھالنا - (ڈھالنا) (دہ-۱۰-مٹ) (۱) دھات کو پگھلا کر تانے یا قالب میں ڈالنا (۲) ٹاننا۔ اڑانا۔ بیچنا (۳) اپنی طرف مائل کرنا (۴) شرارت کرنا۔ مزربینا (۵) کرنا۔ بھجیرنا۔ (۶) بکھرنانا۔
ڈھالو (ڈھالوال) - (ڈھا۔ لو۔ ڈھال۔ وال) (دہ-۱۰-مٹ) (۱) ڈھالنا۔ ڈھالوان ایک طرف کو پستی رکھنے والا۔

ڈونگا (ڈونگھا) - (دہ-۱۰-مٹ) (میت۔ گہرا۔
ڈونگا (ڈونگ) - (ڈونگ) (دہ-۱۰-مٹ) (۱) چھوٹی کشتی۔ بھرا۔ چھوٹی سی ناؤ (۲) پانی بھرنے کا ڈنڈی دار برتن۔ ڈونٹی (۳) سالن رکھنے کا برتن۔
ڈونگائی (ڈونگائی) - گہرائی۔ عمق۔
ڈونگر - (ڈونگر) (دہ-۱۰-مٹ) (۱) اُچی زمین۔ ٹیلا (۲) پہاڑ۔ پہاڑی علاقہ پہاڑی ملک۔
ڈونگر پھل - (دہ-۱۰-مٹ) گھاس کا پھل جو گھوڑوں کو کھلایا جاتا ہے۔
سنگ پیرہ۔
ڈونگری - (ڈونگری) (دہ-۱۰-مٹ) (۱) چھوٹی پہاڑی۔
ڈونگی - (ڈونگی) (دہ-۱۰-مٹ) (۱) ڈونٹی (۲) وہ چھوٹی کشتی جو بڑی کشتی یا جہاز کے ساتھ بندھی رہتی ہے۔
ڈونگی (ڈونگی) - گہری۔ ڈونگائی کا تانٹ۔
ڈوہ - (دہ-۱۰-مٹ) چشمہ (۲) گہرا پانی (۳) گڑھا۔
ڈوہڑا - (Duet) (انگ) (دہ-۱۰-مٹ) ڈول گان۔ دو گانا۔ دو آواز کی گیت۔ وہ گانا ہے دو آدمی مل کر گائیں۔
ڈوہڑا - (Duel) (انگ) (دہ-۱۰-مٹ) جھگڑا لڑنے کے لیے دو شخصوں کی لڑائی (تلوار پستول وغیرہ سے)
ڈوٹی - (ڈو۔ ای) (دہ-۱۰-مٹ) مکاری کا بڑا چیمبر جس سے ہسٹیا پکاتے ہیں۔ کنگری۔
ڈوڑن - (Division) (انگ) (دہ-۱۰-مٹ) (۱) فرج کا حصہ (۲) علاقہ۔ حصہ (۳) تقسیم۔
ڈوڑنلج - (Divisional Judge) ایک علاقے کا جج۔

ط

ڈہلا - (ڈہلا) (دہ-۱۰-مٹ) (۱) سرسبز تر و تازہ۔ سیراب (۲) خوش و خرم (۳) بھرا۔ بھلا۔ بھلا (۴) بھلا ہونا۔ شوخ رنگ۔
ڈہلا ہونا - (دہ-۱۰-مٹ) (۱) (دہ-۱۰-مٹ) (۱) بھلا ہونا۔ بھلا ہونا۔ بھلا ہونا۔ بھلا ہونا۔
ڈہیر - (ڈہیر) (دہ-۱۰-مٹ) (۱) جو پڑ۔ برساتی پانی کا تالاب (۲) نشیب۔ نیچی زمین (۳) جہاز یا کشتی کا پینڈا (۴) کیم کا وہ زرد رنگ جو شہاب سے پیشتر نکلتا ہے۔
ڈہیرا - (ڈہ۔ را) (دہ-۱۰-مٹ) (۱) وہ جگہ جہاں تھنوں کی درزوں سے پانی آکر جمع ہو گیا ہو (۲) گڑھا جو پانی کے لیے کھودا جائے (۳) نشیبی زمین۔
ڈہرانا - (ڈہ۔ رانا) (دہ-۱۰-مٹ) (۱) ترسانا۔ دھوکا دینا۔
ڈہرکاؤنا - (ڈہ۔ کا۔ او۔ نا) (دہ-۱۰-مٹ) (۱) ترسانا۔ دھوکا دینا۔
ڈہرگان - (ڈہ۔ گان) (دہ-۱۰-مٹ) (۱) ڈھیر۔ انبار۔

ڈ

ڈھ - (دہ-۱۰-مٹ) (۱) گہرا پانی (۲) گہرا گڑھا۔

ڈھانا - (ڈھانا، وہ - مص [۱۱] گانا، مسارکنا (۲) مٹانا۔ برباد کرنا۔ ظلم کرنا۔ آفت برپا کرنا۔

ڈھانپنا - (ڈھانپ - نا) وہ - مص [چھاپنا - ڈھانکنا۔

ڈھانچ - ڈھانچا - (ڈھانچ - چا) وہ - ۱ - نڈ [۱۱] بھیر بنی ہوئی چارپائی کرسی دیکھو کی چوکھٹ (۲) خاکہ - ڈول - قالب - پٹیوں کا پنجر۔

ڈھانڈا - (ڈھان - ڈا) وہ - ۱ - نڈ [بوڑھا بیل۔

ڈھانڈا چلنا - پیٹ چلنا - بدبھی ہونا - دست آنا۔

ڈھانڈنا - (ڈھانڈ - نا) وہ - ۱ - نڈ [جوان کبوتر۔

ڈھانکننا - (ڈھانک - نا) وہ - مص [چھپانا - ڈھانپنا - پردہ ڈالنا۔

ڈھانی - (ڈھانا - ای) وہ - مص [اڑھانی - دروازہ آدھا۔

ڈھانی اچھر بریم کے، پڑھے سوینڈت ہو - (رہ - ش) محبت کے چند حرف ہیں جو ان پر عمل کرے گا وہی عالم فاضل ہوگا۔

ڈھانی پیر بکاؤن کے میاں باغبان - (زا - ش) کم حیثیت پر

شتمی پارنا کم حیثیت ہوتے ہوئے بلند مرتبہ کی خواہش کرنا۔

ڈھانی چیلو لہو پینا - (ا - محاورہ) غضب ناک ہونا - اگلے زمانے میں شمن کو قتل کر کے اس کا ڈھانی چیلو پھینچتے تھے۔

ڈھانی دن کی بادشاہت کرنا - (مثل) اولہا بننا - نوشتہ بننا۔

(۲) چنبر روزہ حکومت کرنا یعنی عواموں سے دوزخ بردہنا - عارضی عروج پانا ڈھانی ٹھری کی آنا - (ا - محاورہ) ایک دم موت آنا - ڈھانی ٹھری کے اندر مرجانا۔

ڈھانپنا - (ڈھانا - ایس) وہ - ۱ - نڈ [بیل پڑھانے کے واسطے لکڑی کی جھڑی ڈھب - (ہ - ۱ - نڈ [۱۱] ڈھنگ - طور - طریقہ - روش (۲) موقع - صورت

(۳) لیکھا - عادت (۴) قہم - طرز۔

ڈھب آنا - (ا - محاورہ) طریقہ معلوم ہونا۔

ڈھب پر چڑھانا (لانا) لگانا - (ا - محاورہ) قابو میں لانا - اپنے مطلب کا بنانا۔

ڈھب پر چڑھنا - (ا - محاورہ) جتنے چڑھنا - قابو میں آنا - بس میں آنا۔

ڈھب ڈالنا - (ا - محاورہ) عادت ڈالنا (۲) تربیت دینا (۳) راستہ نکانا - رسائی پیدا کرنا۔

ڈھب ڈھب قلیب - (ا - نڈ [بتلا اور بدمزہ سالن۔

ڈھب ڈھب کی بات - (ا - مٹ) معقول بات - موزوں بات - ڈھب سے - (ا) موقع سے - قرینہ اور موقع سے۔

ڈھب کا ہونا - (ا - محاورہ) حسب مطلب ہونا۔

ڈھب لگ جانا - (ا - محاورہ) موقع بل جانا - نام نہ رہنا۔

ڈھب ہونا - (ا - محاورہ) سلیقہ ہونا - طریقہ ہونا۔

ڈھبڈ بانا - (ڈھب - ڈ - بانا) وہ - مص [تیرنے میں ہاتھ بانوں مارنا۔

ڈھبیری - (ڈھب - ری) وہ - ۱ - مٹ [بیج کے اوپر کالو یا جس کو پھیر کر بیج کو کوس دیتے ہیں۔

ڈھبیںس - (ڈھب - بس) وہ - مص [بد قطع - بد وضع۔

ڈھبوس - (ڈھب - یوس) وہ - مص [موٹا - بھدا - بد وضع۔

ڈھبیللا - (ڈھب - لی - لا) وہ - مص [بڑھل - سہیلا - خوش وضع۔

ڈھب - (ہ - ۱ - نڈ [دقت یا دفت۔

ڈھبائی - (ڈھب - پائی) وہ - ۱ - نڈ [دفت بجانے والا - ڈھبائی۔

ڈھبڈ پانا - (ڈھب - ڈ - پانا) وہ - مص [ڈھول پر ہاتھ مارنا۔

ڈھبڈنا - (ڈھب - نا) وہ - ۱ - نڈ [ڈھکن - ڈھانپنے کا برتن (مص) ڈھبڈنا۔

ڈھبڈو - (ڈھب - پو) وہ - مص [موٹا - بے ڈھنگا - بھدا۔

ڈھبڈو - (ہ - مص) (ا) مضبوط - کڑا (۲) موٹا کپڑا۔

ڈھبڈا - (ڈھب - نا - را) وہ - ۱ - نڈ [دغا باز - فربھی۔

ڈھبڈائی - (ڈھب - ٹا - ای) وہ - ۱ - مٹ [بے حیائی - بے شرمی (۲) ہٹ بھند (۳) گستاخی - بے ادبی۔

ڈھبڈ بند - (مص) دغا باز۔

ڈھبڈ بندی - (ڈھبڈ - بن - دی) وہ - ۱ - مٹ [نظر بندی - جادوگری۔

ڈھبڈنگار - (ڈھب - یس - گ - ڈا) وہ - ۱ - مٹ [موٹا تازہ - مٹھنا۔

ڈھبڈچر - (ڈھبڈ - چر) وہ - ۱ - نڈ [ہڈیوں کا ڈھانچ (۲) بوڑھا - نجیف و کمزور - تریل۔

ڈھبڈا - (ہ - ۱ - نڈ [نیشی زمین جہاں پانی جمع ہو جائے۔

ڈھبڈو - (ڈھبڈ - ڈو) وہ - ۱ - مٹ [بوڑھی عورت - بکواسی عورت - شور

بجانے والی (۲) مٹھا لے رنگ کی ایک پڑیا۔

ڈھبڈوگا - ڈھبڈو والا - (ہ - مص) اتق - بے وقوف - گدھا۔

ڈھبڈوہ - (ہ - ۱ - مٹ) برندوں کی دُم کے پر نکلنے کی جگہ۔

ڈھبڈی - ڈھبڈی - (ڈھبڈ - ڈی) وہ - ۱ - مٹ [ہتھکے کے اوپر کی ہڈی (۲) ایک قسم کا تخت۔

ڈھبڈا - (ڈھب - نا) وہ - ۱ - نڈ [راستہ - شاہراہ - وہ راستہ جو رات دن چلتا رہے۔

شارع عام۔

ڈھبڈے پر چلنا - (ا - محاورہ) ایک خاص طریقے یا اصول پر عمل کرنا۔

ڈھبڈے پر لگائینا - (ا - محاورہ) راہ پر لے آنا - ٹھیک راستے پر لگائینا۔

ڈھبڈر - (ہ - ۱ - نڈ [کولا - پتھا - چوڑے کے اوپر گادہ جھتہ جس پر پہلوان حریت کو پڑھنا کر دے مارتے ہیں۔

ڈھبڈنا - (ڈھب - سل - نا) وہ - مص [۱۱] پھلنا - ڈھبڈنا (۲) چکنا - مانل ہونا۔

ڈھبڈنسی - (ڈھبڈ - نی) وہ - ۱ - مٹ [بیہودہ عورت - کین عورت۔

ڈھبڈنکنا - (ڈھب - نا) وہ - ۱ - نڈ [سرپوش - چینی - ڈھکن (مص) چھپانا۔

ڈھانکنا - پوشیدہ رکھنا۔

ڈھبڈنکنا - (ہ - مص) مانل ہونا - چکنا - گھٹنا۔

ڈھبڈکوس - (ڈھبڈ - کوس) وہ - ۱ - مٹ [۱۱] پیاس (۲) ڈھکونا کا آمر۔

ڈھبڈسلا - (ڈھبڈ - کوس - لا) وہ - ۱ - نڈ [۱۱] فریب - دھوکا (۲) بیہودہ اور

ہمل بات - بہانہ۔

ڈھبڈکونسا - (ڈھبڈ - کوس - نا) وہ - مص [اندازے سے زیادہ کھانا یا پینا۔

ڈھبڈکھینا - (ڈھبڈ - نا) وہ - ۱ - مٹ [۱۱] دیکھنا (۲) رچون کرنا (۳) قبول کرنا۔

ڈھبڈکی - (ڈھبڈ - کی) وہ - ۱ - مٹ [وہ جگہ جہاں شکار کی تاک میں چھپ کر

بٹھتے ہیں۔

ڈھنگ - ذق - ۱۔ مذہب ڈھیر انبار۔

ڈھنگ - ۲۔ ۱۔ مٹ [مٹ] نزدیک - قریب - پاس۔

ڈھنگا - (ڈھنگ کا) ڈھ - ۱۔ مذ [ا] ڈبلا اور پتل ٹانگوں والا گھوڑا (۲) بے وقت - اتنی - بیل

ڈھنگار - (ڈھ - گار) ذق - ۱۔ مذہب ڈھیر انبار۔

ڈھلان - (ڈھ - لان) ڈھ - ۱۔ مٹ [ا] ڈھال - نشیب - نیچی زمین (۲) میلان - طبع - رجحان۔

ڈھلانا - (ڈھ - لانا) ڈھ - مٹ [ا] ساپنے یا قالب میں ہونا۔

ڈھلا ہوا - (۱) صفت وہ منہمک یا شہر بولے ساختہ ہو۔

ڈھلائی - ڈھلائی - (۱) مٹ [ا] ڈھلائی کے کلمے کی اہمیت۔

ڈھلتا - (ڈھ - لت) ڈھ - ۱۔ مٹ [ا] قالب یا ساپنے میں ڈھل ہوئی چیز ڈھلتی پھرتی چھاؤں ملائش [زمانہ اور دولت کسی ایک حالت پر نہیں رہتے - بھی ایک کے پاس بھی دوسرے کے۔

ڈھیل جانا - (۱) صفت [مٹ] مائل بہ ذوال ہونا - کم ہونا۔

ڈھیل - (ڈھیل - ل) ڈھ - ۱۔ مذہب ڈھیر - ڈھالارست - کاہل۔

ڈھلک - (ڈھ - نک) ذق - ۱۔ مٹ [ا] توجہ۔

ڈھلکا - (ڈھیل کا) ڈھ - ۱۔ مذہب آنکھ سے پانی بہتے رہنے کا مرض۔

ڈھلکانا - (ڈھیل - کاننا) ڈھ - مٹ [ا] لٹکانا (۲) لٹکانا - ہینا (۳) رنجت دلانا بجاوش پیدا کرنا۔ (ق)

ڈھیل کرنا - (ڈھیل - کم) ڈھ - (۱) صفت [تا مرد - محنت۔

ڈھلکانا - (ڈھیل - نک) ڈھ - مٹ [ا] اوپر سے نیچے آنا - ٹپکانا - ہینا۔

ڈھلکانا - (ڈھیل - نک) ڈھ - مٹ [ا] ٹھکانا۔

ڈھیلل - (ڈھیل - ل) ڈھ - ۱۔ صفت [ا] ہلنا ہونا (۲) لٹھکانا ہونا (۳) مذہب۔

ڈھیلل یعنی - (۱) صفت [ا] مذہب (۲) متلون مزاج - ضعیف الاعتقاد ڈھانوں ڈول - غیر یقینی - ایمان کا کچا۔

ڈھیلکانا - (ڈھیل - ہم - لانا) ڈھ - مٹ [ا] ڈھنگانا - لٹھکانا (۲) ڈھانوں ڈول ہونا (۳) پس و پیش کرنا - مذہب ہونا - متروک ہونا۔

ڈھلانا - (ڈھیل - نا) ڈھ - مٹ [ا] رواں ہونا - ہینا کرنا (۲) گھٹنا اترنا۔

کم ہونا (۳) بھول جانا (۴) لٹھکانا - گزنا (۵) ساپنے یا قالب میں تیار ہونا - اٹھنا جانا (۶) پہلے ہونا - گل جانا۔

ڈھلنا - (ڈھیل - نا) ڈھ - مٹ [ا] نیچے کی طرف جانا پھلنا (۲) مائل ہونا۔

متوجہ ہونا (۳) لادا جانا۔

ڈھلوانا - (ڈھیل - وال) ڈھ - ۱۔ صفت [ا] پھلوانا - جھکوانا - ڈھلوانا۔

ڈھلوانا - (ڈھیل - وا - نا) ڈھ - مٹ [ا] ساپنے یا قالب میں ہونا۔

ڈھلوانا - (ڈھیل - وا - نا) ڈھ - مٹ [ا] اسباب اٹھوانا - بوجھ ایک سے دوسری جگہ منتقل کرنا۔ لدوانا۔

ڈھلوانا - (ڈھیل - وانس) ڈھ - ۱۔ مٹ [ا] ڈھیل یا پتھر کے ٹکڑوں کا پھینکانا۔

ڈھیلے پھینک کر بارنا۔

ڈھلوانا - (ڈھیل - وان - سی) ڈھ - ۱۔ مٹ [ا] گویا - فلاٹن۔

ڈھلائی - (ڈھیل - نا - ئی) ڈھ - ۱۔ مٹ [ا] بوجھ اٹھوا کر لے جانے کی مزدوری۔

ڈھلیتا - (ڈھیل - لی - یا) ڈھ - ۱۔ مذہب ڈھالنے والا۔

ڈھلیت - (ڈھیل - لیت) ڈھ - ۱۔ مذہب وہ شخص جو ہر وقت ڈھال تلوار باندھے رہے (۲) گاؤں کا چوکیدار (۳) ساپنے میں ڈھالنے والا۔

ڈھمدھی - (ڈھم - ڈھ - می) ڈھ - ۱۔ مٹ [ا] ڈھل - چھوٹا دھت -

ڈھندار - (ڈھن - ڈار) ڈھ - ۱۔ مذہب ویران مکان - ڈراؤنا گھنڈر۔

ڈھندلاٹ - (ڈھن - لٹ) ذق - ۱۔ مٹ [ا] آوارہ گردی - بے مقصد آمدورفت۔

ڈھندلنا - (ڈھندل - نا) ذق - مٹ [ا] ڈھونڈنا - تلاش کرنا۔

ڈھندلنا - (ڈھندل - نا) ڈھ - مٹ [ا] تلاش کرنا - جستجو کرنا۔

ڈھندوانا - (ڈھندل - وا - نا) ڈھ - مٹ [ا] تلاش کرنا۔

ڈھندورا - (ڈھن - ڈور - را) ڈھ - ۱۔ مٹ [ا] ڈھنگی - ڈھول (۲) منادی

تشریح

ڈھندورا پیٹنا - (۱) محاورہ منادی کرنا تشریح کرنا - جا بجا کہتے پھرنا۔

ڈھندورا شہر میں لڑکا بھل میں - (۱) مثل [چیز پاس ہوتے ہونے

ادھر ادھر تلاش کرتے پھرنا۔

ڈھندورچی - (ڈھندور - یا) ڈھن - ڈور - چی (ڈھن - ڈور - یا) منادی

کرنے والا - ڈھندور دینے والا۔

ڈھندلانا - (ڈھوں - ڈھال - نا) ڈھن [ا] آوارہ پھرنا - مارے مارے پھرنا۔

ڈھندریا - (ڈھندل - یا) ڈھ - ۱۔ مٹ [ا] تلاش - جستجو۔

ڈھنگ - (ڈھ - نا) ڈھ [ا] طریقہ - طرز - طور (۲) روش - چال چلن - رویہ (۳) وضع قطع (۴) سیرت - عادت (۵) سبزی سلیقہ (۶) انداز۔

ڈھنگ اٹرانا - (۱) محاورہ رنگ اختیار کرنا - نقل کرنا۔

ڈھنگ برتنا - (۱) محاورہ وضع داری نہا ہینا چال چلنا - برابر برتاؤ کرنا۔

ڈھنگ بگڑنا - (۱) محاورہ طور طریقہ بدلتا - حال خراب ہونا۔

ڈھنگ پرلانا - (۱) محاورہ موافق بنانا - کسی راستہ پر لانا۔

ڈھنگ ڈالنا - (۱) محاورہ بنیاد ڈالنا - کوئی نیا کام شروع کرنا - راستہ پیدا کرنا۔ طریقہ وضع کرنا۔

ڈھنگ سیکھنا - (۱) مذہب کسی کی روش اختیار کرنا۔

ڈھنگ نکالنا - (۱) محاورہ طرز نکالنا۔

ڈھنگ کی بات - (۱) مٹ [ا] محاوروں و مناسب بات۔

ڈھنگ ہلنا - (مٹ - مرکب) یکساں طریقہ ہونا - ایک ہی طرح کے انداز ہونا۔

ڈھنگ بڑالے - (۱) صفت [ا] عجیب عادت (۲) اونکے اور ناقابل

فہم طریقے (۳) قابل اعتراض چال چلن۔

ڈھنگار - (ڈھن - گار) ذق - ۱۔ مذہب ڈھیر - انہار۔

ڈھنگڑا - (ڈھنگ - ڈا) ڈھ - ۱۔ صفت [ا] جوان - مضبوط۔

ڈھنگی - (۱) مذہب حالاک - فریب کرنے والا۔

ڈھو - (ق - ۱) مذہب دلدار - گہرا پانی۔

ڈھو - (۳) صفت [قوی - تنومند (۲) کبڈی - ڈھوانا - (ڈھ - وا - نا) ڈھ - مٹ [ا] ہمار کرنا - گردانا - مہندم کرنا۔

ڈھوننا۔ (ڈھو۔ نا)۔ (ہ۔ مع) (۱) بوجھ اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا۔ لا۔ دنا۔ اٹھا کر لے جانا (۲) چوری لے جانا۔
 ڈھونچنا۔ (ڈھو۔ چ)۔ (ہ۔ ا۔ مذ) ساٹھے چار کا پھاڑا۔
 ڈھونڈنا۔ (ہ۔ ا۔ مع) تلاش۔ سرائخ۔ جستجو۔ کھوج۔
 ڈھونڈ پھرنا۔ (۱) محاورہ) تلاش کر کے ناکام آنا۔
 ڈھونڈ ڈھانڈنا۔ (۱) مع) تلاش۔ جستجو۔ سرائخ۔ کھوج۔
 ڈھونڈ ڈھانڈ کر۔ (۱) دیکھ بھال کر۔ سرائخ لگا کر تلاش کر کے۔
 ڈھونڈ نکالنا۔ (۱) محاورہ) سرائخ لگانا۔
 ڈھونڈنا۔ (ڈھونڈنا)۔ (ہ۔ مع) تلاش کرنا۔ کھوج لگانا۔ پتہ لگانا۔
 ڈھونڈ سے نہ پانا۔ (۱) محاورہ) بہت تلاش کے باوجود نہ پانا۔
 ڈھونگ۔ (ہ۔ ا۔ مذ) (۱) تماش (۲) فریب۔ ریاکاری۔ بناؤٹی۔ باتیں۔
 ڈھونگ رجانا۔ (۱) محاورہ) فریب کا وبال پھیلانا۔
 ڈھونگی۔ (ڈھو۔ گی)۔ (ہ۔ مع) ڈھونگ رچانے والا۔ مکار۔
 ڈھوہ۔ (ہ۔ ا۔ مذ) ٹیلہ، تودہ (۲) گراں ڈیل آدمی۔
 ڈھویا۔ (ڈھو۔ یا)۔ (ہ۔ ا۔ مذ) چھل۔ چھول اور موسیٰ بنری کی ڈالی۔
 ڈھسٹی۔ (ڈھ۔ ای)۔ (ہ۔ ا۔ مع) ایک جگہ جم کر بیٹھ جانا۔ ڈھرنادے کر بیٹھ جانا۔
 ڈھسٹی دینا۔ (۱) محاورہ) (۱) جم کر بیٹھنا (۲) ایسا بیٹھنا کہ اٹھنے کا نام نہ لینا (۳) کسی کے ہاں کھانے کے خیال سے اڑ بیٹھنا (۴) ذبردستی رہ پڑنا۔
 ڈھسی۔ (ہ۔ ا۔ مع) دریا کا اونچا کنارہ۔ تودہ۔ انبار۔
 ڈھے پڑنا۔ ڈھے جانا۔ (۱) محاورہ) (۱) گر پڑنا۔ مکان کا شمار ہو جانا (۲) رہ پڑنا۔ اتر پڑنا۔
 ڈھیتا۔ (ڈھی۔ یا)۔ (ہ۔ ا۔ مذ) (۱) اڑھائی سیر کا باٹ (۲) گاؤں۔ پاس کا گاؤں۔
 ڈھیٹ۔ (ڈھیٹھ۔ ہ۔ ا۔ مع) (۱) ضدی۔ سرکش۔ اڑیل (۲) بیباک۔ ڈھیٹھ۔
 ڈھیر۔ (ہ۔ ا۔ مذ) تودہ۔ انبار (۲) کھلیان (۳) انہود۔ ہجوم۔ بھیڑ۔ مجمع۔ (۴) قبر (۵) ہیبت۔ کثرت۔ افراط۔
 ڈھیر کرنا۔ (۱) محاورہ) (۱) جمع کرنا۔ فراہم کرنا (۲) مار ڈالنا (۳) مٹی کا تودہ بنانا۔
 ڈھیر ہو جانا۔ (۱) محاورہ) (۱) تنگ جانا (۲) مکان کا ٹوٹ چھوٹ کر گر پڑنا (۳) انبار لگ جانا (۴) مرکز قبر میں جانا۔ بیجان ہو کر گر پڑنا۔
 ڈھیرا۔ (ڈھی۔ را)۔ (ہ۔ ا۔ مذ) (۱) بھینٹا۔ (۲) جمع کا نشان۔ الجبرے میں (۳) موٹی جوں۔
 ڈھیری۔ (ڈھے۔ ری)۔ (ہ۔ ا۔ مع) (۱) بھینٹ عورت (۲) چھوٹا سا انبار (۳) گاؤں یا جاڈا میں جتتہ۔
 ڈھیر۔ (ہ۔ ا۔ مذ) (۱) کوتا (۲) ہنڈوؤں کی ایک بیچ قوم چمار (۳) اتن۔ بے وقف۔
 ڈھیل۔ (ہ۔ ا۔ مع) (۱) دیر۔ وقفہ۔ تامل۔ ہستی۔ کاہلی (۲) فرصت۔

ڈھوائی۔ (ڈھو۔ وا۔ ای)۔ (ہ۔ ا۔ مع) ڈھونے کی اجرت۔ سامان اٹھانے کا معاوضہ۔
 ڈھوبرا۔ (ڈھوب۔ را)۔ (ہ۔ ا۔ مذ) (۱) مٹی کا بڑا پیالہ (۲) پرانا برتن۔ (۳) پرانا اور کچا مکان۔
 ڈھوٹا۔ (ڈھو۔ ٹا)۔ (ہ۔ ا۔ مذ) لڑکا۔ بیٹا۔ معنوب اور موٹا تازہ بیٹہ۔
 ڈھوڑا۔ (ڈھو۔ ڈا)۔ (ہ۔ ا۔ مذ) (۱) ڈھانچا۔ قالب (۲) گھر۔ جھونپڑا۔ (۳) کارخانہ کا روبر (۴) دکھاوا۔ ظاہری ٹیپ ٹاپ۔
 ڈھوڑا بنانے رکھنا۔ (۱) محاورہ) (۱) قدیمی عزت یا حالت کو بنانے رکھنا (۲) ظاہری حالت درست رکھنا۔ ٹیپ ٹاپ رکھنا۔
 ڈھور۔ (ہ۔ ا۔ مذ) موشی۔ چوپائے۔
 ڈھور مرے نہ کو اٹھائے۔ (ایشل) فضول امید کی توقع پر کہتے ہیں ڈھورا۔ (ہ۔ ا۔ مذ) ایک کپڑا جو چنے کو لگ جاتا ہے (۲) مٹی کا بند جو کسی نالی کے کنارے بنایا جاتا ہے۔
 ڈھوسر۔ (ڈھو۔ سر)۔ (ہ۔ ا۔ مذ) ہندوؤں کی ایک ذات۔ ویش۔ بنیا۔ ڈھوک۔ (ہ۔ ا۔ مع) ٹال ٹول۔ تذبذب۔
 ڈھوکا۔ (ڈھو۔ کا)۔ (ہ۔ ا۔ مذ) (۱) پانچ گنڈوں کا مجموعہ۔ نقدی کی ایک قدیم اکائی (۲) پھینے کی جگہ۔ خار (۳) دھکا۔ گھات۔
 ڈھوکنا۔ (ڈھوک۔ نا)۔ (ہ۔ مع) چھپ کر شکار کرنا۔
 ڈھول۔ (ہ۔ ا۔ مذ) طبلور۔ ایک مشہور ساز۔ طبل۔ مردنگ۔
 ڈھول ڈھسکا۔ (۱) ہنڈو۔ ہمام۔ دھوم دھڑکا۔ باجا لگایا۔
 ڈھول کی آواز دُور سے سہمائی دیتی ہے۔ (۱) شل) دیکھیے دُور کے ڈھول بہانے۔
 ڈھول کے اندر بول۔ (۱) شل) اصل میں کچھ نہیں رہا دکھاوا اور رعب۔
 ڈھولا۔ (ڈھو۔ لا)۔ (ہ۔ ا۔ مذ) (۱) کھیت اور زمین کی سرحد دکھانے کا نشان (۲) طاق یا گیند کا قالب (۳) اتن آدمی۔
 ڈھولا بندی۔ (ہ۔ ا۔ مع) (۱) محبت یا زمین کی سرحد کا نشان بنانا۔
 ڈھولا۔ (ڈھو۔ لا)۔ (ہ۔ ا۔ مذ) (۱) مشہور پنجابی عاشق (۲) ایک پنجابی عشیقہ گیت (۳) عاشق۔ دھوکا دینے والا عاشق (۴) پیارا (۵) محبوب (۶) بیٹہ۔ لڑکا۔
 ڈھولک۔ (ڈھو۔ نگ)۔ (ہ۔ ا۔ مع) چھوٹا ڈھول۔ ڈھولکی۔
 ڈھولکی۔ (ڈھول۔ کی)۔ (ہ۔ ا۔ مع) ڈھولک۔
 ڈھولکیا۔ (ڈھو۔ نگ۔ یا)۔ (ہ۔ ا۔ مذ) ڈھول بجانے والا۔
 ڈھولنا۔ (ڈھول۔ نا)۔ (ہ۔ ا۔ مذ) (۱) ڈھول کی شکل کا گٹھے میں بہنے کا ایک زور (۲) چھوٹی جمائل۔ چھوٹی تقطیع کا قرآن شریف جو بطور تعویذ گٹھے میں ڈالا جاتا ہے۔
 ڈھولنا لٹھوں پر ہونا۔ (۱) محاورہ) سرگھڑی قرآن شریف کی قسم کھانا۔
 ڈھولی۔ (ڈھو۔ لی)۔ (ہ۔ ا۔ مع) (۱) پانوں کا ٹھٹھا جس میں زیادہ سے زیادہ ہزار اور کم سے کم دوسو پان ہوتے ہیں۔

ڈی

ڈی۔ ایس۔ پی۔ (D.S.P.) (انگ۔ ۱۔ مٹ) ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ پولیس۔ چھوٹا پولیس کپتان۔

ڈی۔ سی۔ (D.C.) (انگ۔ ۱۔ مذ) ڈپٹی کمشنر۔ ضلع کا حاکم۔

ڈیپارٹمنٹ۔ (Department) (انگ۔ ۱۔ مذ) محکمہ شعبہ صیغہ و ضبط۔ (۱۔ مٹ) نظر نگاہ۔ بینائی۔

ڈیپٹ بئند۔ (۱۔ مٹ) نظر باندھنے والا۔ جادوگر۔ شیعہ باز۔ ساحر۔

ڈیڈ لیٹر آفس۔ (Dead Letter Office) (انگ۔ ۱۔ مذ) ڈاک گاہ دفتر جہاں لاوارث یا واپسی چھٹیاں بھیجی جاتی ہیں اور پڑنا ل کے بعد جلادی جاتی ہیں۔

ڈیڈی۔ (Daddy) (انگ۔ ۱۔ مذ) باپ۔ آبا۔

ڈیڈی کیٹ۔ (Dedicate) (انگ۔ ۱۔ مذ) کسی چیز یا کتاب کو کسی کے نام کرنا۔

ڈیڈی کیشن۔ (Dedication) (انگ۔ ۱۔ مذ) نامزدگی نذر گزارنا۔

ڈیر۔ (Dear) (انگ۔ صفت) (۱) پیارا۔ عزیز (۲) قیمتی۔ گراں۔ ہنگامہ۔

ڈیرا۔ (ڈیرے۔ نا) (۱۔ مذ) (۱) خیمہ۔ تینو (۲) عارضی قیام گاہ (۳) گھر مکان۔

ڈیرا ڈالنا۔ (۱۔ محاورہ) رشتہ کر لینا۔ چھاؤنی ڈال لینا۔ رہ پڑنا۔

ڈیرا کرنا۔ (۱۔ محاورہ) اترنا۔ رہنا۔ ٹھہرنا۔ عارضی قیام کرنا۔

ڈیرے دار۔ (۱۔ صفت) ڈیرے وال۔ خوشحال طوائف۔

ڈیری۔ (Dairy) (انگ۔ ۱۔ مٹ) شیر خانہ۔ دودھ، گھن، پنیر تیار کرنے کا کارخانہ۔

ڈیری فارم۔ (Dairyfarm) دودھ دینے والے جانور پالنے کی جگہ۔

ڈیرھ۔ (۱۔ صفت) ایک پورا اور دھما۔ ۱۔

ڈیرھ اچھڑ پڑھانا۔ (۱۔ محاورہ) ترکیبیں بتانا۔ ہوشیار کر دینا۔

ڈیرھ اینٹ کی مسجد بنانا۔ (۱) تھوڑا سا کام کر کے دل کا حوصلہ نکالنا۔ (۲) کسی کی رائے سے متفق نہ ہونا اور اپنی انگ رائے قائم کرنا (۳) کسی کے ساتھ شرکت پسند نہ کرنا۔ اپنے طور پر ایک کام کرنا۔

ڈیرھ بکان میاں باغ میں۔ (۱) مثل اٹھوڑی سی کونجی پڑا پڑا تاکرٹ اور کم حوصلگی نسبت کہتے ہیں۔

ڈیرھ پاؤ۔ ایک پاؤ اور آدھ پاؤ۔

ڈیرھ پاؤں چون چو بارے رسوئی۔ (۱) مثل ذرا سے کام کے لیے بڑا ہتنام۔

ڈیرھ چلو اہو پلینا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) غصہ کھا کر برداشت کر جانا (۲) دلہری دل میں گڑھ کر دھانا۔

ڈیرھ کرہ۔ (۱) ایک اور آدھی کرہ (۲) وہ گہ جو آسانی سے گل کے۔

ڈیرھ کرہ کی زبان۔ (۱۔ صفت) گستاخی۔ زبان درازی۔ بدزبانی۔

ڈیلت (۳) بے توجہی۔ لاپرواہی (۴) بھول۔

ڈھیلا دینا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) دودھ دے کر تنگ کر پڑھانا (۲) بے پرواہی برتن۔ توجہ نہ دینا (۳) دانستہ چشم پوشی کرنا (۴) بھلت دینا۔

ڈھیلا کرنا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) دیر کرنا۔ تاخیر کرنا (۲) وقت گزارنا۔

ڈھیلا وقت کرنا۔

ڈھیلا۔ (۱۔ صفت) (۱) صفت (۲) سست۔ کاہل (۳) کھلا کپڑا (۴) نامرد۔

ڈھیلا باجا مہر۔ (۱۔ مذ) کھلا ہوا باجا مہر۔ عزارہ۔ کھلے یا پتھول کا باجا مہر۔

ڈھیلا پڑھانا (۱۔ محاورہ) (۱) پخت یا تنگ نہ رہنا (۲) نرم پڑھانا غصہ کم ہو جانا (۳) شہوت نہ رہنا (۴) سست یا کمزور ہو جانا۔

ڈھیلا پن۔ (۱۔ مذ) (۱) سستی۔ کاہلی (۲) نامرد ہو جانا۔

ڈھیلا پیچ۔ (۱) وہ گندھ سے ہونے والے جوھڑوں تک ہوں (۲) پگڑی کا وہ بیچ جو جوھڑوں پر پڑے (۳) پرزہ ہو سکتا ہوتا ہے۔

ڈھیلا۔ (ڈھے۔ لا) (۱۔ مذ) (۱) ڈھ۔ مٹی کا بڑا ٹکڑا۔ گونج (۲) آنکھ کے اندر کا گول حصہ۔

ڈھیلا لینا۔ (۱۔ محاورہ) پیشاب کرنے کے بعد ڈھیلا سے نئی تنگ کرنا۔ استنہا کرنا۔

ڈھیلا۔ (۱۔ صفت) (۱) گشاہ۔ فراخ (۲) سست۔ کاہل (۳) نازک۔ کمزور۔ ناتواں۔

ڈھیلا (چھوڑنا) دینا۔ ڈالنا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) بھلت دینا (۲) خبر نہ لینا (۳) تاخیر کرنا۔ بے توجہی برتن (۴) آزادی دینا۔

ڈھیلا (ڈھیلا) زناح۔ (۱۔ صفت) (۱) سست اور کاہل عورت (۲) زنا نہ عادات کا مرد۔

ڈھیم۔ (۱۔ مٹ) (۱) گونج۔ مٹی کا بڑا ڈالا۔

ڈھینا۔ (ڈھے۔ نا) (۱۔ مٹ) (۱) گرنا۔ سہارا ہونا۔ مہندم ہونا (۲) اینٹ سے اینٹ بچنا (۳) مارنا۔ دل چھوڑ دینا (۴) ڈبلا اور کمزور۔

ڈھینڈا۔ (ڈھیں۔ ڈا) (۱۔ مذ) (۱) توند۔ حمل۔ بڑا پیٹ۔ ناجائز حمل۔

ڈھینڈا اٹھلانا۔ (۱۔ محاورہ) حائل ہونا۔ حمل رکھوانا۔

ڈھینڈا اچھو لینا۔ (۱۔ محاورہ) پیٹ رہنا۔

ڈھینڈس۔ (ڈھیں۔ ڈس) (۱۔ مذ) (۱) ایک قسم کا گول کدو (۲) خایہ خسیہ (۳) موٹا آدمی۔

ڈھینڈک۔ (۱۔ مذ) (۱) ایک آبی پرندہ سارس۔ لم ڈھینڈک کا مختلف ڈھینڈکا۔ (ڈھیں۔ کا) (۱۔ مذ) (۱) کولہو کی لاٹھ۔ آب کش (۲) سارس ایک بڑی ٹانگوں والا مردار خور جانور۔ گنگ۔

ڈھینڈکلی۔ (ڈھینڈک۔ لی) (۱۔ مٹ) (۱) پانی کھینچنے کی لمبی لکڑی۔

آب کش (۲) آڑی سلاخی۔ کپڑے سے کٹا ایک خاص طریقہ (۳) دھان کوٹنے کا آلہ (۴) قلابازی۔

ڈھینڈکلی کھانا۔ (۱۔ محاورہ) قلابازی کھانا۔

ڈھینڈک۔ (۱۔ مذ) سارس گنگ ایک لمبی ٹانگوں والا آبی پرندہ۔ لم ڈھینڈک۔ (ڈھیں۔ گر) (۱۔ مذ) (۱) کمزور۔ ڈبلا پتلا (۲) کانٹے دار سوکھی لکڑی۔

ڈیموکریسی - (Democracy) (انگ - ۱۔ مٹ) جمہوری مملکت، جمہوریت
ڈیمی - (Demy) (انگ - صفت) آدھا، نیم - نصف -
ڈیمی آفیشل - (Demy Official) نیم سرکاری خط - اسے
 محقق کے ڈی - او (D-O) بھی کہتے ہیں۔
ڈین - (Dean) (انگ - ۱۔ مٹ) بڑے گرجا کا افسر اعلیٰ - بڑا پادری۔
 (۲) کالج کا مقیم رفیق جس کے سپرنٹنڈنٹ کی نگرانی کی خدمت ہو (۳)
 - یونیورسٹی کے کسی شعبہ کا صدر۔
ڈینا - (ڈی - نا) (ہ - ۱۔ مٹ) وہ ڈنڈا جو میل کی گردن میں باندھ
 دیتے ہیں۔
ڈینگ - (ہ - ۱۔ مٹ) شنی - تعلق - لاف زنی۔
ڈینگ ہانگنا - ڈینگ کی لینا - ڈینگ مارنا - (۱۔ محاورہ) شنی
 بھگانا - اترانا۔
ڈینگیا - (ڈیں - گ - یا) (۱۔ مٹ) شنی خورا - بڑبولا - لاف زن -
 اترانے والا۔
ڈیو - (Due) (انگ - صفت) (۱) واجب الادا (۲) لازم - ضروری
 (۳) درست۔
ڈیوٹ - (ہ - ۱۔ مٹ) پُرانی قسم کا چربی چراغدان (۲) (صفت)
 بے وقوف - احمق۔
ڈیوٹی - (Duty) (انگ - ۱۔ مٹ) (۱) فرض منصبی - کام خدمت
 (۲) جنگی کام حصول۔
ڈیوٹھا - (ڈیو - ٹھا) (ہ - صفت) (۱) ایک اور آدھا - یک و نیم (۲) ایک
 قسم کا سوڈو چھاس فیصد لیا جاتا ہے (۳) ریل کار درمیانہ درجہ - انٹر کلاس۔
ڈیوٹھا لیکھا برابر ہونا - (۱۔ محاورہ) حساب میناق ہونا۔
ڈیوٹھی - (ڈیوٹھی) (ہ - ۱۔ مٹ) ڈیوٹھ جھتہ - ٹپ - ایک و نیم۔
ڈیوٹھی - (ڈیوٹھی) (ہ - ۱۔ مٹ) (۱) مکان میں داخل ہونے کا کرہ۔
 صدر دروازہ کے سامنے کا کرہ (۲) دلہیز - آستانہ - درگاہ (۳) دخل
 باریابی - آمد و رفت - دربار داری۔
ڈیوٹھی بند ہونا - (۱۔ محاورہ) دربار شاہی یا کسی امیر کے سامنے باریابی
 نہ پاسکنا - ڈیوٹھی پر روک دیا جانا۔
ڈیوٹھی دار - (۱۔ مٹ) (۱) صفت) دربان - پہرہ دار - حاجب۔
ڈیوٹھی کھلنا - (۱۔ محاورہ) باریاب ہونا - باریابی کی اجازت ملنا - سرکار
 میں آمد و رفت کی اجازت پانا۔
ڈیوک - (Duke) (انگ - ۱۔ مٹ) (۱) نواب - بڑے درجے کا امیر۔
 رئیس اعظم (۲) انگریزی خطاب۔
ڈیوہ - (ہ - ۱۔ مٹ) کھنڈروں کا ٹیلا۔
ڈیسری - (ہ - ۱۔ مٹ) دلدلی زمین۔

ڈیزائن - (Design) (انگ - ۱۔ مٹ) نقشہ - خاکہ - نقش و نگار -
 ترکیب - ڈول - ڈھانچا۔
ڈیزائنر - (Designer) (انگ - ۱۔ مٹ) خاکہ تیار کرنے والا - نقشہ کش۔
ڈیسک - (Desk) (انگ - ۱۔ مٹ) سکول کے بچوں کی ڈسٹوان میز۔
ڈیفنس - (Defence) (انگ - ۱۔ مٹ) (۱) بچاؤ - ملاحفت (۲) مخالفت متقابلہ
ڈیک - (Deck) (انگ - ۱۔ مٹ) عرشہ جہاز - تختہ جہاز۔
ڈیک آنہ - (ڈیک - آنہ) (ہ - ۱۔ مٹ) چھ آنہ - دلالوں کا محاورہ۔
ڈیک روپن - (ڈیک - روپن) (ہ - ۱۔ مٹ) (۱) پتھ روپے
 دلالوں کی زبان میں محاورہ۔
ڈیکلریشن - (Declaration) (انگ - ۱۔ مٹ) (۱) بیان - اقرار
 (۲) اعلان (۳) اقرار نامہ (۴) عوامی دعویٰ (۵) اخبار یا رسالہ جاری کرنے کا اجازت نامہ
ڈیل - (ہ - ۱۔ مٹ) (۱) جسم - پنڈا - تن - کاٹھی - قد و قامت - جسامت (۲) گنتا۔
ڈیل ڈول - (ہ - ۱۔ مٹ) (۱) قد و قامت - تن و نوش (۲) جسامت۔
ڈیل - (ہ - ۱۔ مٹ) (۱) ڈھیلا (۲) ایک قسم کا گھاس (۳) ناگرمٹھا (۴) کرر کا میل۔
ڈیلٹا - (Delta) (انگ - ۱۔ مٹ) نمونی زمین جو کسی دریا کے دلتانہ پر واقع ہو
ڈیلر - (Dealer) (انگ - ۱۔ مٹ) (۱) تقسیم کرنے والا (۲) بیوپاری -
 کاروباری - سوداگر - فروشنده۔
ڈیلی - (Daily) (انگ - صفت) (۱) روزانہ - روزمرہ (۲)
 (انگ - ۱۔ مٹ) روزنامہ - روزانہ اخبار۔
ڈیلیا - (ڈے - ل - یا) (ہ - ۱۔ مٹ) ایک بوٹا جس میں زرد اور سُرخ پھول
 ہوتے ہیں۔
ڈیلی گیٹ - (Delegate) (انگ - ۱۔ مٹ) مختار - دکیل -
 نمائندہ - مندوب۔
ڈیلی گیشن - (Delegation) (انگ - ۱۔ مٹ) جماعت مندوبین
 نمائندوں کی جماعت۔
ڈیم - (Dame) (انگ - ۱۔ مٹ) (۱) پُشتہ - بند - روک - بینڈھ (۲)
 پانی جو بند باندھ کر روک دیا جائے۔
ڈیم فول - (Damn Fool) (انگ - ۱۔ مٹ) باجی - احمق - نالائق
ڈیمانسٹریٹر - (Demonstrator) (انگ - ۱۔ مٹ) مثال
 اور تجربے کے ذریعے - عمل تعلیم دینے والا۔
ڈیمورن - (Demurrage) (انگ - ۱۔ مٹ) ریل یا جہاز کے حدود
 سے وقت مقررہ کے بعد مال لے جانے کا محصول۔
ڈیموکریٹ - (Democrat) (انگ - ۱۔ مٹ) (۱) جمہوریت پسند -
 جمہوریت کا حامی (۲) (امریکہ میں) جمہوری پارٹی کا نام۔

ذ

ذ۔ (ذال) (ع۔ مذ) اردو کا تیرھواں۔ فارسی کا گیارھواں اور عربی کا نوں حرف۔ ہندی اور سنسکرت میں استعمال نہیں ہوتا۔ اسے ذال مجتہ یا منقوٹ بھی کہتے ہیں۔ اجمکے حساب میں اس کے ۷۰۰ عدد ہیں۔ عربی کا مخصوص حرف ہے۔ یہ شمسی حرف ہے جس میں لام آواز نہیں دے گا جیسے الذکر۔

ذ ا

ذاب - (ع۔ صفت) (۱) پیاسا (۲) پھلا ہوا۔

ذابح - (ذ۔ ذبح) (ع۔ صفت) ذبح کرنے والا۔ قربانی کرنے والا۔

ذابجر - (ذ۔ ذب) (ع۔ صفت) عالم۔ فاضل۔

ذابح - (ذ۔ ذب) (ع۔ صفت) (۱) فاش (۲) پراگندہ۔

ذات - (ع۔ ۱۔ مٹ) (۱) حقیقت۔ اصلیت۔ ماہیت۔ مادہ۔ روح۔

(۲) بدن۔ شخصیت (۳) وجہ۔ (۴) قسم۔ نوع۔ (۵) عزت۔ آبرو۔

(۶) حیثیت۔ وقعت (۷) قوم۔ جمع : ذوات۔

ذات البین - (ع۔ مٹ) (۱) دوستی۔ اتفاق (۲) معاملہ جو دو شخصوں کے مابین ہو۔

ذات الجنب - (ع۔ ۱۔ مذ) پہلی کا در۔ پہلو کا در۔

ذات الذواجب - (ع۔ ۱۔ مذ) برگد۔ بڑگا پٹیر۔

ذات الرقاق - (ع۔ ۱۔ مذ) ایک قسم کا استوارہ۔ کاغذ کے پرزدوں

پر افعال دلائع لکھ کر جانا کے نیچے رکھ دیتے اور بعد نماز ایک

پرزدہ اٹھاتے ہیں اگر افعال نکل آئے تو اجازت سمجھتے ہیں (۲) ایک

غزوہ جو سگڑ کو پیش آیا۔

ذات الریح - (ع۔ ۱۔ مذ) نمونیر کا مرض۔

ذات الشمال - (ع۔ ۱۔ صفت) بائیں جانب۔

ذات الصدور - (ع۔ ۱۔ مذ) سینے کا در۔ سینے کا درم۔

ذات العماد - (ع۔ مذ) بارغ ارم۔ وہ بارغ جسے کہتے ہیں کہ شاد نے بنو امیاطا

ذات النطاقین - (ع۔ صفت) حضرت اسماء بنت ابوبکر صدیقہ کا لقب ہے

ذات الیمین - (ع۔ ۱۔ صفت) داہنی طرف۔

ذات باہر - (ع۔ ۱۔ صفت) ذات سے نکالا ہوا۔

ذات بات - (ع۔ ۱۔ مٹ) قوم۔ قبیلہ۔ گنم۔

ذات پھر جانا - (ع۔ ۱۔ محاورہ) کسی سے ذلیل حرکت کا اس کے کینہ ہونے

کے باعث سرزد ہونا۔

ذات دینا - (ع۔ ۱۔ محاورہ) کسی کے ساتھ کھاپی کر ذات کو خراب کرنا (۲)

کسی کو ذات میں شامل کرنا۔

ذات رات - (ع۔ ۱۔ مٹ) حسب و نسب۔

ذات سے گرا ہوا - (ع۔ ۱۔ محاورہ) ذات سے خارج۔ برادری سے نکالا ہوا

ذات سے نکال دینا - برادری سے خارج کر دینا۔

ذات شریف - (ع۔ ۱۔ صفت) پمالک۔ بے سند۔ شرارتی۔

ذات کی بیٹی ذات میں جاتی ہے - (ع۔ ۱۔ مثل) شریف کا پیرند

شریف سے ہوتا ہے۔

ذات میں بٹا لگنا - (ع۔ ۱۔ محاورہ) نسل میں عیب لگنا۔

ذات میں ملنا - (ع۔ ۱۔ محاورہ) برادری میں شامل ہونا۔

ذات و نسا - ذات و نسی - (ع۔ ۱۔ صفت) اچھی ذات والا۔ اچھی ذات والی۔

ذات ہمالول - (ع۔ صفت) (۱) مبارک شخصیت (۲) بادشاہ سلامت

بادشاہ کی اپنی شخصیت۔

ذاتی - (ع۔ ۱۔ صفت) (۱) اصل جنیتی (۲) شخصی۔ بچی۔ اپنی۔

ذاتی حقوق ملک خیر - (ع۔ ۱۔ مقولہ) وہ حقوق جو کسی شخص کو ایک شے

پر دوسری شے کی ملکیت سے تعلق کے بغیر حاصل ہوں۔

ذاتی حیثیت - (ع۔ ۱۔ مذ) اصل پر بچی۔ خاص سرمایہ۔

ذاتی معاملات - (ع۔ ۱۔ مذ) گھر کے معاملے۔ خانگی امور۔

ذاتیات - (ذ۔ ق۔ بات) (ع۔ ۱۔ مٹ) (۱) عنایت (۲) شخصیت۔

(۳) کسی ذات سے متعلقہ باتیں۔

ذاکر - (ذ۔ ک۔ ع۔ صفت) (۱) ذکر کرنے والا (۲) وہ شخص جو مجلس میں

مصائب اہل بیت بیان کرتا ہے۔

ذائب - (ذ۔ ب۔ ع۔ صفت) [تپچے چلنے والا۔

ذالقبہ - (ذ۔ ب۔ ق۔ ع۔ ۱۔ مذ) (۱) مزہ۔ لذت (۲) لطف۔ چسکا (۳)

مچھنے کی قوت۔

ذالقبہ ٹرنا - (ع۔ ۱۔ محاورہ) چسکا پڑنا۔

ذالقبہ چکھنا - (ع۔ ۱۔ محاورہ) (۱) مزہ چکھنا (۲) سزا چکھنا۔

ذالقبہ دار - (ع۔ ۱۔ صفت) مزیدار۔ لذیذ۔

ذالقبہ شناس - (ع۔ ۱۔ صفت) مزہ پہچاننے کا ماہر۔

ذ ب

ذبح - (ع۔ ۱۔ مذ) شرعی طور پر ہانڈ کو حلال کرنا۔ گلا گٹنا۔

ذبح ہونا - (ع۔ ۱) شرعی طور پر حلال ہونا (۲) قتل ہونا۔ نقصان پہنچانا۔

ذبیح - (ع۔ ۱۔ صفت) (ع۔ ۱) ذبح کیا ہوا۔ حلال کیا ہوا۔

ذبیح اللہ - اللہ کے راستے میں ذبح کیا ہوا۔ حضرت اسماعیل کا لقب۔

ذبیح فرات - حضرت امام حسین کا لقب۔ آپ دریائے فرات کے

کنا سے کر بلا میں شہید کیے گئے تھے۔

ذبیحہ - (ذ. کی جمع) (ع. ۱- مذ) قربانی کا جانور۔ شرعی طور پر ذبح کیا ہوا جانور۔

ذخ

ذخائر - (ذ. خا. ا. ر) (ع. ۱- مذ) وہ جگہ جہاں اشیاء کا ذخیرہ کیا گیا ہو۔ ذخیرہ کی جمع۔
 ذخیرہ - (ذ. ری. رہ) (ع. ۱- مذ) (۱) خزانہ (۲) گودام (۳) پونجی۔ جمع جتھہ۔
 (۴) وہ جگہ جہاں پودوں کی بیجیاں اکٹھی کی جاتی ہیں۔ جمع ذخائر۔
 ذخیرہ اندوزی - (ع. ۱- صفت) اشیاء کا ذخیرہ کر لینا تاکہ مانگ زیادہ ہونے پر انہیں ہنگے داموں بیچا جاسکے۔
 ذخیرہ ہونا - (۱- محاورہ) (۲) جمع ہونا (۳) گودام میں رکھا جانا (۴) پونجی ہونا

ذرا

ذرا - (ذ. را) (ع. ۱- مذ) (۱) تھوڑا (صفت) (۲) بہت کم۔ تھوڑا۔
 ذرا خشکا کھاؤ - (۱- محاورہ) چلتے پھرتے نظر آؤ۔
 ذرا دانتوں تلے زبان دے - (۱- محاورہ) کچھ تامل کرو۔
 ذرا ذرا - (۱) تھوڑا تھوڑا (۲) کُل۔ تمام۔
 ذرا ذرا کر کے - (۱) تھوڑا تھوڑا کر کے۔
 ذرا سا - (۱) صفت) چھوٹا۔ تھوڑا سا۔
 ذرا سا منہ نکل آنا - (۱- محاورہ) بیاری، گھبراہٹ یا خوف سے چہرہ اُترانا
 ذرا سی بات ہے - (۱- محاورہ) بہت آسان کام ہے۔ معمولی کام ہے۔
 ذرا ظہور - (۱- صفت) تھوڑا۔ کچھ۔ کسی قدر۔
 ذرا عقل کے ناخن لو - (۱- محاورہ) سوچ سمجھ کر بات کرو۔

ذرا کی ذرا - (۱) تھوڑی دیر کے لیے۔
 ذرا منہ دھو رکھو - (۱- محاورہ) ایسی بات کی امید نہ رکھو۔
 ذرا منہ سنبھالو - (۱- محاورہ) جب کوئی شخص بدزبانی کرتا ہو تو اسے بطور
 دھمکی کے کہتے ہیں۔
 ذرا میں - (۱) تھوڑی سی دیر میں۔

ذرا ہوش میں آؤ - (۱- محاورہ) سوچ سمجھ کر باتیں کرو۔ عقل کے ناخن لو۔
 ذرا ذرا - (ذ. را) (ع. ۱- مذ) ذرا کی جمع۔ چھوٹے چھوٹے ریزے
 جو قابل تقسیم نہ ہوں۔

ذراغ - (ذ. راغ) (ع. ۱- مذ) (۱) بازو در میان انگلی کے سرے سے
 کہنی تک (۲) ایک ایک لاکھ ایک گز (۳) گھوڑے کی اگلی ٹانگ ٹخنے سے اُپر
 (۴) نشان جو اونٹ کی ٹانگ پر لگاتے ہیں (۵) تیزے کا حصہ سرے سے
 ذراغ - (ذ. راغ) (ع. ۱- مذ) ذراغ کی جمع طریقے۔ راستے۔ وسائل۔

ذروت - (ذ. رت) (ع. ۱- مٹ) (۱) اُونچی چیز (۲) پہاڑ کی چوٹی۔
 ذرہ - (ذ. رہ) (ع. ۱- مذ) (۱) مادے کا نہایت چھوٹا ٹکڑا۔ ریزہ (۲) تھوڑا۔
 قبیل۔ جمع : ذرات۔

ذرہ بھر - (ع. ۱- مذ) تھوڑا سا۔ ناسا۔

ذرہ بے مقدار - (ع. صفت) بے وقعت شے۔

ذرہ بین - (۱- مذ) وہ آلہ جس سے ذرات کی شناخت کی جاتی ہے۔

ذرہ پر زور - (ع. ف. صفت) ناچیز کی قدر کرنے والا۔ معمولی آدمی کا
 خیال کرنے والا۔

ذرہ ذرہ - (ع. ف. صفت) تفصیل کے ساتھ۔ سب کچھ۔

ذرا صفت - (ع. ف. صفت) ذرے کی طرح چھوٹا سا۔
 بے وقعت۔ ناچیز۔

ذرا نواز - (ع. ف. صفت) ذرہ پر زور۔

ذرے کو آفتاب بنانا - (۱- محاورہ) ناچیز کو اعلیٰ مرتبہ پر پہنچانا۔

ذروہ - (ذ. رہ) (ع. ۱- مٹ) (۱) پہاڑ کی بندی۔ پہاڑ کی چوٹی لنگرہ۔
 اُونچی جگہ۔ جمع : ذری۔

ذری - (ذ. ری) (ع. ۱- مٹ) ذرا کے بجائے استعمال ہوتا ہے۔ تھوڑی۔

ذرتیت - (ذ. ری) (ع. ۱- مٹ) اولاد۔ نسل۔ تخم۔ جمع : ذریات

ذریعہ - (ذ. ری) (ع. ۱- مذ) (۱) وسیلہ۔ واسطہ (۲) طفیل معرفت (۳)
 موقع۔ پہنچنے کا طریقہ۔ تعلق۔ سبب۔ وجہ۔ جمع : ذرائع۔

ذریعہ بنانا - (۱- محاورہ) وسیلہ پیدا کرنا۔

ذریعہ پیدا ہونا - (۱- محاورہ) وسیلہ پیدا ہونا۔ طریقہ نکل آنا۔ موقع ہونا۔

ذریعہ رکھنا - (۱- محاورہ) دلچسپی لینا۔

ذریعہ نکالنا - (۱- محاورہ) وسیلہ پیدا کرنا۔

ذریعہ ہونا - (۱- محاورہ) ذریعہ بنانا۔ وسیلہ ہونا۔

ذوق

ذوق - (ذ. قن) (ع. ۱- مذ) تھوڑی۔ جمع : اذقان۔

ذک

ذکا - (ذ. کا) (ع. ۱- مٹ) ذکاوت۔ ذہانت۔ دانائی۔ فراست۔ عقلمندی۔

ذکا - (ذ. کا) (ع. ۱- مذ) سُورج۔ آفتاب۔

ذکاوت - (ذ. کا) (ع. ۱- مٹ) ذہن کی تیزی۔ ذہانت۔ تیزی
 طبع۔ تیز فہمی۔

ذکر - (ذ. کر) (ع. ۱- مذ) (۱) مرد (۲) آلہ تناسل (۳) فلاں (۴) فلاں کی
 بنی ہوئی تلوار۔ جمع : ذکور۔

ذکر - (ع. ۱- مذ) (۱) تذکرہ۔ چرچا۔ بیان (۲) زبان اور دل سے خدا کی یاد

(۳) سپردگی - تحویل - امانت (۴) جواب دہی - مواخذہ - بار (۵) فرض - فوکرگی (۶) وفاداری - پناہ - ذمہ دار - (ع - ف - صفت) (۱) ضامن - کفیل - جوابدہ - فرض شناس - ذمہ دارانہ - (ع - صفت) ذمہ داری کے ساتھ - جواب داری - (ع - ف - ا - مٹ) (۱) ضمانت - کفالت - فرض شناسی - جواب دہی - ذمہ کرنا - (۱) محاورہ (۱) ذمہ لینا سپرد کرنا - تحویل میں دینا (۲) حامی بھڑنا - ذمہ - (ذم - می) (ع - ا - مذ) غیر مسلم جو اسلامی سلطنت میں رہے اور جزیہ ادا کرے - ذمہ - (ذ - می - مہ) (ع - ا - مٹ) برائی - خرابی - جمع : ذمام -

(۴) قرآن پاک کی تلاوت (۵) تعریف - شہرت - حمد - خدا کا شکر ادا کرنا - ذکر نماز - جمع : اذکار - ذکر آنا - (۱) محاورہ کسی کی بابت کچھ گفتگو ہونا - تذکرہ ہونا - ذکر تہ - جنونیوں کا ایک ذکر جس میں حق حق کی آواز ملنے سے نکالی جاتی ہے ذکر العیش نصف العیش - (مٹ) عیش و عشرت کے تذکرے سے بھی بہت سا لطف حاصل ہوتا ہے - ذکر باخیر - ذکر جمیل - ذکر خیر - (۱) مذ کسی کے متعلق اچھی بات کہنا - کسی کا تذکرہ جو نیک بات سے کیا جائے - ذکر حلیا - (۱) محاورہ تذکرہ ہونا - بات پھڑنا - ذکر چھڑنا - (۱) محاورہ بات چیت ہونا کسی بات کی ابتداء ہونا - ذکر حقیقت - (۱) مذ مشوق کی باتیں - معشوق کا تذکرہ - ذکر حق - (۱) مذ زبان و دل سے خدا کی یاد - ذکر خوال - (ع - ا - صفت) خدا کا ذکر کرنے والا - ذکور - (ذ - کور) (ع - ا - مذ) ذکر کی جمع - بہت سے مرد - ذکی (ع - صفت) تیز فہم - ذہین - ہوشیار - زیرک - زود فہم - جمع : اذکیا - ذکیہ - (ذ - کیہ) (ع - صفت) بہت یاد کرنے والا - ذکیہ - (ذ - کی - یہ) (ع - ا - مٹ) تیز فہم عورت -

ذ ن

ذنب - (ذ - نب) (ع - ا - مذ) گناہ - قصور - جرم - جُرکام - ذنوب - (ذ - نوب) (ع - ا - مذ) ذنب کی جمع - گناہ

ذکر جمع - بہت سے مرد - ذکی (ع - صفت) تیز فہم - ذہین - ہوشیار - زیرک - زود فہم - جمع : اذکیا - ذکیہ - (ذ - کی - یہ) (ع - ا - مٹ) تیز فہم عورت -

ذ و

ذو - (ذ - و) (ع - ا - مذ) مالک - آقا - والا - صاحب - ذوالریعۃ الاضلاع - (ع - ا - مٹ) چار پہلوؤں یا چار اضلاع والی شکل ذواضعاف - (ع - ا - مذ) جب ایک عدد کوئی عددوں پر پورا تقسیم ہو سکے تو اسے اُن عددوں کا ذواضعاف کہتے ہیں - ذواضعاف اقل - (ع - ا - مذ) سب سے چھوٹا ذواضعاف - وہ عدد جو کوئی عددوں پر پورا تقسیم ہو سکے اور اُس سے کوئی چھوٹا عدد ایسا نہ ہو کہ اُن عددوں پر پورا تقسیم ہوتا ہو - اس عدد کو اُن عددوں کا ذواضعاف اقل کہتے ہیں - ذوالاحترام - (ع - صفت) صاحب احترام - مرتبے والا - صاحب عزت - ذوالجلال - (ع - صفت) صاحب جلال - مرتبے والا - دب دبے والا - خدائے تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام - ذوالجناح - (ع - ا - مذ) پرندوں والا - حضرت امام حسینؑ کے اُس گھوڑے کا نام جس پر آپ معرکہ کربلا میں سوار تھے -

ذ ل

ذلت - (ذ - ل) (ع - ا - مذ) کمزور - ذلت - (ع - ا - مٹ) (۱) ذلت - رسوائی - خواری (۲) جنگ - توہین (۳) کمزور - ذلت (۴) حقارت - ذلت - (ذ - ل) (ع - ا - مٹ) رسوائی - توہین - بدنامی - ذلت اٹھانا - (۱) محاورہ ذلیل وغوار ہونا - شرمندہ ہونا - ذلت چھانا - (۱) محاورہ محو دست برسانا - نکت چھانا - ذلت دینا - (۱) محاورہ (۱) شرمندہ کرنا - خفیض کرنا - ذلت ہونا - (۱) محاورہ رسوائی ہونا - جنگ ہونا - شرمندگی ہونا - ذلیل - (ذ - لیل) (ع - صفت) (۱) خوار - خستہ (۲) رسوا - بدنام (۳) کمزور - ذلیل - باجی - سفلہ - جمع : اذلتہ - ذلیل کرنا - (۱) محاورہ رسوا کرنا - خفیض کرنا - شرمندہ کرنا -

ذوالجمال - (ع - صفت) بد مزاج - سخت دل - ذوالحج - ذوالحجہ - قمری سال کا بار ہواں مہینہ جس میں حج بیت اللہ اور عید الاضحیٰ کی تقاریب ہوتی ہیں - ذوالفقار - (ع - ا - مٹ) حضرت علیؑ کی تلوار کا نام - ذوالقرنین - (ع - ا - مذ) دو گیسوؤں یا دو سینکوں والا - ایک بادشاہ کا نام جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے - اسکندر - لیکن یہ تحقیق نہیں ہو سکا کہ وہ اسکندر کون تھا -

ذ م

ذم - (ع - ا - مٹ) مذمت - ہجو - برائی - ذم کا پہلو نکلنا - (۱) محاورہ برائی یا مذمت کی صورت ہونا - ذمام - (ذ - مام) (ع - ا - مذ) (۱) حق (۲) عزت - جمع : اذمہ - ذمہ - (ذ - مہ) (ع - ا - مذ) (۱) ضمانت - کفالت - ضمانتی (۲) عہد پیمان

ذہن نشین - (رع۔ ف۔ صفت) سمجھا ہوا۔ یاد رکھا ہوا۔ سمجھ میں آیا ہوا۔
 ذہن نشین کرنا - (ام۔ محاورہ) (۱) سمجھانا (۲) نشینی کر دینا۔
 ذہن نشین ہونا - (ام۔ محاورہ) (۱) سمجھ میں آنا (۲) یاد ہو جانا (۳) نشینی ہو جانا۔
 ذہنی - (ذہ۔ فی۔) (رع۔ صفت) (۱) ذہن کے متعلق (۲) دماغی۔ عقلی۔
 ذہنیات - (ذہ۔ فی۔) (یات،) (رع۔ ا۔ مٹ) ذہن سے تعلق رکھنے والی چیزیں۔
 ذہنیست - (ذہ۔ فی۔) (یت،) (رع۔ ا۔ مٹ) طبیعت کا رجحان۔ تیزی طبع۔
 طبیعت کا میلان۔ مزاج۔
 ذہیب - (ذہ۔ بیب) (رع۔ صفت) سہنہرا۔ سونے کا۔
 ذہین - (ذہ۔ بین) (رع۔ صفت) وہ شخص جس کا ذہن تیز ہو۔ ذکی۔ ہوشیار۔ تیز فہم۔

ذوالکفل - (ذ۔ کلام پاک میں ایک پیغمبر کا نام۔
 ذوالمنن - (رع۔ صفت) بخشش اور احسان کرنے والا۔ خدا کی صفت ہے۔
 ذوالنورین - (رع۔ صفت) دونوں والا۔ حضرت عثمانؓ کا لقب کیونکہ رسول اللہ کی دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے ان کے نکاح میں آئیں۔
 ذوالنون - (رع۔ مذ) حضرت یونسؑ کا لقب کیونکہ آپ پھلی کے پیڑ میں رہے تھے۔ نون بمعنی پھلی۔ ایک مسلمان بزرگ کا نام۔ ذوالنون حسری۔
 ذو زناہبہ - (رع۔ ا۔ مذ) دم دار ستارہ۔
 ذوشون - (رع۔ صفت) (۱) وہ جو کئی فن جانتا ہو۔ عالم۔ فاضل (۲) پرنسپل۔ عیار۔ چالاک۔
 ذومعنی - (رع۔ صفت) یا معنی۔ عموماً ذومعنی کے بجائے استعمال ہوتا ہے یعنی دو معنوں والا۔ وہ بات جس میں کئی پہلو یا معنی نکلتے ہوں۔
 ذومعنی کہنا - (ام۔ محاورہ) ایسی بات کہنا جس کے کئی معنی نکلتے ہوں۔

ذی

ذی - (رع۔ ا۔) دیکھئے "ذو" صاحب مالک۔ رکھنے والا۔
 ذی ابرو - (رع۔ صفت) آبرو والا۔ عزت دار۔
 ذی اختیار - (رع۔ صفت) اختیار والا۔ حکمت والا۔ حاکم۔
 ذی استعداد - (رع۔ صفت) (۱) قابل۔ لائق (۲) امیر۔ دولت مند۔
 ذی اقتدار - (رع۔ صفت) حکومت والا۔ اقتدار والا۔ حاکم۔
 ذی جہاد - (رع۔ صفت) مرتبے والا۔ افسر۔
 ذی رنج - (رع۔ ا۔ مذ) قمری سال کا بار ہواں ہیبتہ جس میں مسلمان حج ادا کرتے ہیں۔
 ذی القعد - (رع۔ ا۔) (مذ) قمری سال کا گیارہواں ہیبتہ۔
 ذی حرمت - (رع۔ صفت) عزت دار۔ باعزت۔
 ذی جس - (رع۔ صفت) جاندار۔ احساس رکھنے والا۔
 ذی حشم - (رع۔ صفت) حشمت والا۔
 ذی حیات - (رع۔ صفت) (۱) جاندار۔ زندہ۔
 ذی خرد - (رع۔ صفت) عقل مند۔ دانا۔
 ذی رتبہ - (رع۔ ف۔ صفت) عمدہ دار۔ صاحب منصب۔ افسر۔ حاکم۔
 ذی روح - (رع۔ صفت) جاندار۔
 ذی شان - (رع۔ صفت) شان و شوکت والا۔
 ذی شعور - (رع۔ صفت) عقل مند۔ دانا۔ ہوشیار۔ سمجھدار۔
 ذی عزت - (رع۔ صفت) عزت دار۔ مغزز۔
 ذی قعد - (رع۔ مذ) سن بھری کا گیارہواں ہیبتہ۔
 ذی وقار - (رع۔ صفت) معزز۔ صاحب وقار۔
 ذی ہوش - سمجھدار۔ ہوشیار۔ ذہین۔ حاققت اندیش۔ ہوش مند۔
 ذیابیطس - (ذہ۔ بی۔) (طس) (رع۔ ا۔) (مذ) پیشاب کی بیماری جس میں پیشاب کے ساتھ شکر آتی ہے۔
 ذیل - (رع۔ ا۔) (مذ) (۱) دامن نیچے کا حصہ (۲) وہ جو نیچے درج ہو (۳) علاقہ۔ حلقہ (۴) گروہ۔ زمرہ (۵) واسطہ۔ آڑ۔
 ذیل دار - (رع۔ ف۔ صفت) ایک سرکاری عہدہ دار جس کے حلقہ میں

ذوات - (ذ۔ ذات) (رع۔ ا۔) (مذ) جمع ذات کی معنی صاحبان۔ مالکان۔
 ذوق - (رع۔ ا۔) (مذ) (۱) مزہ۔ لطف (۲) شوق۔ خوشی (۳) شغیر اور اہم دہلوی کا غرض
 ذوق رکھنا - (ام۔ محاورہ) شوق رکھنا۔
 ذوق سلیم - (ا۔ صفت) صحیح ذوق۔ درست ذوق۔
 ذوق و شوق - (رع۔ ا۔) (مذ) رچ۔ رچاؤ۔ خوشی۔
 ذوی - (رع۔ ا۔) (مذ) ذوق جمع۔ مالکان۔ صاحبان۔
 ذوی الارحام - (رع۔ صفت) رحیم والے۔ وہ رشتہ دار جو باپ کی طرف منسوب نہ ہوں۔ وہ رشتہ دار جو ماں، بہن، بیوی یا لڑکیوں کی طرف سے منسوب ہوں۔ ذوالفرائض اور مصعبہ نہ ہوں۔
 ذوی الاکرام - (رع۔ ا۔) (صفت) وہ جن کی عزت کی جائے معززین۔
 ذوی الفرائض - (رع۔ صفت) شرعی وارث جن کے حصے مقرر ہیں۔
 ذوی القربی - قربت والے لوگ یعنی جدی رشتہ دار۔

ذہ

ذہانت - (ذہ۔ انت) (رع۔ ا۔) (مٹ) ذہن کی تیزی و فراہم جانے کا لگہ۔
 ذہیب - (رع۔ ا۔) (مذ) (۱) سونا۔ طلا۔ انڈے کی زردی۔ جمع: اذلاب۔
 ذہین - (رع۔ ا۔) (مذ) (۱) حافظہ۔ یاد (۲) ادراک یا سمجھ کی قوت (۳) زیر کی دانائی سمجھ (۴) قابلیت۔ ذکا۔ جمع: اذہان۔
 ذہین رسا - (رع۔ ا۔) (صفت) تیز ذہین۔
 ذہین سے اتر جانا - (ام۔ محاورہ) بھول جانا۔ دھیان نہ رہنا۔
 ذہین گند ہونا - (ام۔ محاورہ) جہمی ہونا۔
 ذہین کھلنا - (ام۔ محاورہ) عقل کا تیز ہونا۔
 ذہین لڑانا - (ام۔ محاورہ) سوچنا۔ غور کرنا۔
 ذہین لڑنا - (ام۔ محاورہ) خیال کی رسائی ہونا۔
 ذہین منتقل ہونا - (ام۔ محاورہ) کسی بات کی طرف خیال جانا۔
 ذہین میں نہ بیٹھنا - (ام۔ محاورہ) کسی بات کا سمجھ میں نہ آنا۔

صنعتی دفعت - (انگ) (Sub clause)
 ذیلی طیفیلی - (ع - ف - صفت) ماتحت -
 ذیلی گرفت - اے - سی - بجلی کی تبادل برقی رو کی گرفت کو کہتے ہیں۔
 جس کی لہریں ایک دوسری کی معاونت کرتی ہیں۔ انگریزی میں اُسے
 سبڈیری وینس (Subsidiary Yalency) بھی کہتے ہیں
 ذیلی عنوان - (ع - ا - مذ) کسی مضمون کی بغلی سرفی۔
 ذیلی قواعد - (ع - ا - مذ) قوانین کی مزید وضاحت کے لیے چھوٹے
 بڑے قاعدے۔
 ذیلی ممتحن - ماتحت ممتحن - (انگ) (Sub Examiner)

کئی گاڑیں ہوتے تھے۔
 ذیلی گھر - (ع - ف - ا - مذ) ایک مکان جس میں معزز آدمی فریڈار فریڈار
 وغیرہ آکر ٹھہرتے ہیں۔
 ذیلی میں - تحت میں - پیچھے۔
 ذیلی وار - (ع - ف - ا - مذ) ذیل کے حساب سے۔
 ذیلی - رڈے - بی (ع - ف - صفت) نیچے کی - ضمنی - ماتحت۔
 ذیلی تقسیم - (ا) نیچے کی تقسیم (ب) کمزور درجہ کی تقسیم انگریزی اصطلاح میں
 اسے سب ڈویژن (Sub Division) کہتے ہیں۔
 ذیلی حاشیہ - (ع - ا - مذ) پاسے وفاق پر لکھی ہوئی عبارت (انگ)
 (Foot Note)
 ذیلی دفعہ - ثانوی دفعت کی مزید وضاحت کے لیے چھوٹی چھوٹی

۱۔ (رے) [ع۔ ا۔ مش] (۱) اردو کا چودھواں، فارسی کا بارہواں، عربی کا دسواں اور ہندی کا تیسواں حرف اسے رائے ہملہ اور رائے غیر منقطہ بھی کہتے ہیں (۲) حساب ابجد میں اس کے دو سو عدد مقرر ہیں۔ یہ شمس حرف ہے۔ علم نجوم میں چاند کی علامت ہے۔

رات بہت آنا۔ (۱۔ محاورہ) رات کو دیر ہو جانا۔ بہت رات گزرنا۔
 رات بھر۔ (اصط) تمام شب۔ ساری رات۔
 رات بھر بیٹائی اور ایک پتہ بیٹائی۔ (امثال) محنت تو بہت کی مگر فائدہ نہ ہونے کے برابر ہوا۔
 رات بھینکنا۔ (۱۔ محاورہ) رات کو خشکی ہو جانا۔ رات کا سرد ہو جانا۔ آدھی رات گزرنا۔
 رات پڑی ہے۔ (۱۔ محاورہ) بہت رات باقی ہے۔
 رات پڑی بوند۔ نام رکھا محمود۔ (امثال) کام مشکل سے شروع ہوا ہے خوشی انہی سے شروع کر دی ہے۔
 رات پڑے آپاسی دن کو کھائے (کھوے) پاسی (امثال) بہت عزیز ہے رات کو بھوکا سوتا ہے دن کو باسی کھاتا ہے۔
 رات پکڑنا۔ (۱۔ محاورہ) رات ہو جانا۔ رات پالینا۔ کام کا سلسلہ رات تک پہنچنا۔
 رات نہاڑ ہونا۔ (۱۔ محاورہ) تکلیف وغیرہ کی وجہ سے رات لمبی ہونا۔ رات کاٹنے نہ لگنا۔
 رات تو اپنی ہے۔ (۱۔ محاورہ) یہ دقت تو اپنا ہے۔
 رات تھوڑی سوانگ بہت۔ رات تھوڑی کہانی بہت (امثال)
 (۱) فرصت کم ہے اور کام زیادہ (۲) عمر کم اور دنیا کے بھڑے بہت۔
 رات تھوڑی ہونا۔ (۱۔ محاورہ) رات کا کم باقی رہنا۔ صبح ہونے کے قریب ہونا۔
 رات تیر کرنا۔ (۱۔ محاورہ) رات گزرنا۔ بسر کرنا۔
 رات جمانا۔ (۱۔ محاورہ) رات گزرنا۔ رات تمام ہو جانا۔
 رات خیلنا۔ (۱۔ محاورہ) رات گزرنا۔ رات رخصت ہونا۔
 رات دن۔ بہر وقت۔ شب و روز۔ آٹھوں پہر۔
 رات دن اس کی تسبیح ہے۔ (۱۔ محاورہ) بہر وقت اس کو یاد کرتا ہے۔
 رات دن برابر ہونا۔ (۱۔ محاورہ) (۲) مارچ اور ۲۱ ستمبر کو دن اور رات کی لمبائی پورے بارہ گھنٹے کی ہوتی ہے (۳) دن اور رات میں کوئی فسق نہ سمجھنا۔ جو کام دن کو چھوڑنا چاہیے سو وہی رات کو بھی کرنا۔
 رات دن پسا اور صینی بھرا اٹھایا۔ (امثال) محنت بہت فائدہ کم۔
 رات دن تیر کا سا مٹا ہے۔ (۱۔ امثال) ہر روز نئی مصیبت ہے۔
 رات ڈھلنا۔ (۱۔ محاورہ) رات کا زوال پر آنا۔ آدھی سے زیادہ رات گزر جانا۔

۱۔

را۔ (ن۔ حرف) (۱) گا۔ کو (۲) سے لیے۔ اردو میں اس کے مرکبات قصداً بمعنی افتاتاً، ناکہانی، خدا را بمعنی خدا کے لیے مستعمل ہیں۔
 راب۔ (۱۔ مش) شیرہ۔ پتلا گڑ جو اکثر تبا کو میں پڑتا ہے (۲) گنے کا رُس۔
 راب نہ را بر بی لے اٹھے کھاڑی۔ (امثال) کوئی اجتن یا بڑی بات نہیں کی اور یہی تورا نکال لی۔ خواہ عزاہ ناراض ہو گئے۔
 را بر بی۔ (راب۔ بی۔ ڈی) (۱۔ مش) (۲) شکر ملا ہوا گاڑھا ڈو دھ۔ ر بڑی۔ (۳) بخار۔ باجو سے یا مکنی کا نلین کھٹی چھاپھ میں پکا ہوا آٹا۔
 را بر بظہ۔ (۱۔ ب۔ ظ۔ ع۔ ا۔ مذ) (۱) نگاڈو۔ علاقہ۔ واسطہ۔ تعلق۔ میل جول (۲) قربت۔ رشتہ۔ جمع: روابظہ۔
 رابح۔ (راب۔ ب۔ ح۔ ص) (۱) چوہا۔
 رابعا۔ (راب۔ ب۔ ع۔ ن) (۱) تابع فعل (۲) چوتھی بار۔ چوتھے۔
 رابعہ۔ (راب۔ ب۔ ع۔ ص) (۱) صنف (۲) چوتھی۔
 رابینا۔ (راب۔ ب۔ ن۔ ا۔ مذ) پھیر۔
 رابیطہ۔ (راب۔ ب۔ ط۔ ع۔ ص) (۱) بخر (زمین)۔
 راپنی۔ (راب۔ ب۔ ن۔ ی) (۱) (۲) (۱) پمرا تراشنے کا اوزار۔ چمرا پھیلنے اور صاف کرنے کی کھوٹی۔ راپنی۔
 رات۔ (۱۔ مش) (۱) سورج کے غروب ہونے سے طلوع ہونے تک کا وقت (۲) رین۔ شب۔ معرب (۳) اندھیرا۔ سیاہی۔ تاریکی۔
 رات آنا۔ (۱۔ محاورہ) رات کا ہونا۔ رات گزرنا۔
 رات آنکھوں میں کاٹنا (لگنا)۔ (۱۔ محاورہ) رات آنکھوں میں گزرنا۔
 انتظار میں ساری رات جاگتے رہنا۔ نیند نہ آنا۔
 رات اخیر ہونا۔ (۱۔ محاورہ) رات لگنا۔ رات ختم ہونا۔
 رات بس کر۔ (۱) رات کو قیام کر کے۔
 رات بسے کا رستہ۔ (۱۔ مذ) وہ رستہ جس کو طے کرنے میں رات کو درمیان میں رہنا پڑے۔ دوپڑا کا رستہ۔
 رات بولنا۔ (۱۔ محاورہ) رات کا سنانا ہونا۔ آدھی رات کو ہوا کا سائیں سائیں کرنا۔
 رات بھاری ہونا۔ (۱۔ محاورہ) (۲) تکلیف اور مصیبت کی رات کا لگنا نہ لگنا (۳) رات کا محض اور نظر ناک ہونا۔

راج بھیا۔ (۵-امٹ، ۱) راجہ کادربار (۶) شاہی مجلس۔

راج سہاگ۔ (۵-۱-۱) مذ، وہ زمانہ جس میں عورت کا خاندان زندہ ہو۔
 راج سہاگ قائم رہے۔ (۱-۱-۱) معادہ، شادی شدہ عورت کے لیے دُعا۔
 راج کا راج میں۔ تاج کا تاج میں۔ بیاج کا بیاج میں۔
 سماج کا سماج میں۔ (رشل) جس قسم کی آمدنی ہو ویسا ہی خرچ ہوتا ہے۔
 راجا کا سلطنت کے کاموں میں۔ ساہوکار کا قرضہ دینے میں اور
 غلہ فروش کا تاج خریدنے میں (۶) ہر سات اپنے محل پر ہوتی
 چاہیئے۔

راج کرنا۔ (۱-۱-۱) معادہ، (۱) حکومت کرنا (۲) عیش میں زندگی بسر کرنا۔
 خوشی ہونا۔

راج گمار۔ (۵-۱-۱) مذ، راجہ کا بیٹا۔ راجپوت۔ گنور۔ شہزادہ۔

راج گماری۔ (۵-۱-۱) مذ، راجا کی بیٹی۔ شہزادی۔

راج کومی۔ (۵-۱-۱) مذ، (۱) درباری شاعر۔ ملک الشعراء۔ تمام شاعروں
 سے بلند پایہ شاعر۔

راج گدی۔ (۵-۱-۱) مذ، تخت شاہی۔ تخت سلطنت۔

راج گری۔ راج گیری۔ (۵-۱-۱) معنی، معماری۔ عمارت یا تہیہ کا کام۔

راج گھاٹ۔ (۵-۱-۱) مذ، راجا کے بنانے کا گھاٹ۔ بہت بڑا گھاٹ۔

راج نیتک۔ (۵-۱-۱) معنی، سیاسی۔

راج نیستی۔ (۵-۱-۱) معنی، سیاست۔ نظام حکومت۔

راج ہنٹ۔ بالک ہنٹ۔ تم یا ہنٹ۔ جوئی ہنٹ۔ (۵-۱) رشل)
 راجہ پنجم۔ عورت اور فیر جو دل میں آئے کرتے ہیں۔ کسی کی نہیں مانتے۔

راج ہنس۔ (۵-۱-۱) مذ، (۱) ایک قسم کی مرغابی۔ بڑی بلی۔

راجا۔ (را۔ جا، ۵-۱-۱) مذ، (۱) بادشاہ۔ فرماں روا۔ حکمران (۲)
 سنی۔ فیاض۔

راجا آگے راج۔ پیچھے نہ چھلنی نہ چھاج۔ (رشل) بڑی عورت کہتی
 ہے کہ خاندان کی زندگی میں بڑے مزے تھے اسکی دفات کے بعد کچھ بھی نہیں
 راجا اندر کا اکھاڑہ (مجلس)۔ (۵-۱-۱) مذ، (۱) راجا اندر کی کھل رخص
 و سردو جو تمام دیوتاؤں اور پریوں کا بادشاہ مانا جاتا ہے (۶) عیش و
 نشاط (۳) خوبصورت عورتوں کا مجمع۔

راجا ادھیراج۔ (۵-۱-۱) مذ، راجوں کا راجا۔ شہنشاہ۔

راجا بلاوے ٹھاڑے آوے۔ (۵-۱-۱) رشل، راجا بلائے تو جلدی آتا
 ہے۔ حاکم کی بہت تابعداری کرتا ہے۔

راجا بھینے تو کیا ہوا انت جاٹ کے جاٹ۔ (۱-۱) رشل، باوجود
 نودو تہ کے قدیم عادت نہ بدلی۔

راجا جوگی کس کے میٹ۔ (رشل) بادشاہ اور جوگی کسی کے دست
 پیش ہوتے۔

راجا چھوڑے نگری جو بھاوے سولے۔ (رشل) راجا سلطنت
 چھوڑ دے تو جو چاہے کرے (۶) راجا اگر شہر چھوڑ دے تو جس کا دل

راجا راج پر جارجین سکھی۔ (رشل) حاکم اچھا ہو تو رعیت آرام

سے رہتی ہے۔

راجا رکے رانی کھاوے۔ (۱-۱) رشل، کما تاکوئی ہے۔ اڈا تاکوئی ہے۔
 راجا روٹھے گا اپنی ننگری لے گا۔ (۱-۱) رشل، راجا ناراض ہو گا تو شہر
 بدر کر دے گا وہاں بکتے ہیں یہاں کسی کی ناراضی کی پردا نہیں ہوتی۔
 راجا کا پرچا نا اور سانپ کا کھلانا برابر ہے۔ (۱-۱) رشل، بادشاہوں
 کی صحبت میں ہر وقت نظر ہوتا ہے۔

راجا کا وان پر جا کا اشان۔ (۱-۱) رشل، خیرات اپنی حیثیت کے موافق
 ہونی چاہیئے۔ عزیز بنانے تو وہی اس کی خیرات ہے۔

راجا کا دو جا بھو کی کا بیجا دو نون خراب۔ (رشل) راجا کا دوسرا بیٹا
 سلطنت کے لیے جھگڑا کرتا ہے اور بکری کا تیسرا بچہ بھوکا رہتا ہے کہ بچہ
 بکری کے دو ہی تھن ہوتے ہیں۔

راجا کو موتی کا دکھ۔ (۱-۱) رشل، جہاں اغراض ہوتی چاہیئے وہاں کوئی چیز
 نہ ملے تو بکتے ہیں۔

راجا گیا جانے بھوکے کی سار۔ (۱-۱) رشل، بھوک کی قدر امیر آدمی
 نہیں جان سکتا۔

راجا کی بیٹی۔ قسمت کرم، کی میٹی۔ (۱-۱) رشل، امیر کی لڑکی عزیزب کے
 گھر بیاہی جانے تو بکتے ہیں۔

راجا کے گھر کا ج۔ ہمارے گھر ٹھک ٹھکا۔ (۱-۱) رشل، بادشاہوں کے
 اغراضات کا بوجھ رعیت پر پڑتا ہے۔ بادشاہ مزے اڑائیں۔ عزیزب

بھوکے مرتے ہیں۔
 راجا کے گھر (آئی) کئی تروت رانی کہلائی۔ (۱-۱) رشل، جب عزیزب کی بیٹی

امیر کے گھر بیاہی جانے تو بکتے ہیں۔
 راجا کے گھر موتیوں کا کال۔ (۱-۱) رشل، (۱) کیا پر دابے۔ کیا کسی ہے۔

(۲) جس کے پاس کوئی چیز کثرت سے ہو اور وہی نہ ملے، تو تعظیماً جھگڑا
 ہونے لگتے ہیں۔ بھلا یہ بھی کیا بات ہے کہ یہ چیز آپ کے بس

کی نہیں۔
 راجا نل پر پیتا پڑی بھونی پھلی جل میں پڑی۔ (۱-۱) رشل، بُرے دن

آئیں تو ہر کام میں نقصان ہوتا ہے۔
 راجا جو کر چوری کرے نیا ڈکون کرے۔ (۱-۱) رشل، حاکم ہی ظلم کرے

تو انصاف کہاں ہے۔
 راجا بی۔ (را۔ جا، ۱-۱) معنی، (۱) سلطنت۔ بادشاہی۔ فرما نروائی

حکومت (۲) امیری۔ دو تہندی۔
 راج۔ (را۔ راج، ۱-۱) معنی، بہتر۔ غالب۔ فائق۔ پسندیدہ۔

راجس۔ (را۔ جس، ۱-۱) راجرس (Rogers) کا لقب۔ (۱-۱) مذ، لوہے
 کے ایک انگریزی کارخانے کا مالک جس کے چار مشہور ہیں۔

راج۔ (را۔ جع، ۱-۱) معنی، رجوع کرنے والا۔ پھرنے والا (۲) وہ
 عورت جو سر جانے کے بعد اپنے والدین کے گھر واپس آجائے (۳)

وہ ادھنی جو معاملہ نہ ہو مگر معاملہ معلوم ہو۔
 راجل۔ (را۔ جع، ۱-۱) معنی، سوار کی جند۔

راجوٹ۔ (را۔ جٹ، ۱-۱) معنی، حکومت۔ جگرانی۔

راچی۔ (را۔ جی) (ع۔ صفت) امیدوار۔ سائل۔
 راجے۔ (را۔ جے) (ق۔ ۱۔ مذ) (۱) مزدور (۲) راجا۔
 راجیو۔ (را۔ جی) (ق۔ ۱۔ مذ) (۱) ایک قسم کی بھلی (۲) ایک قسم کا
 ہرن (۳) بگلا (۴) باغی (۵) نیلا گنول (۶) دشووانا تھکا ایک شاگرد
 (۷) دھاری دار (۸) راجا کے وظیفے پر گزارہ کرنے والا۔
 راجیہ۔ (س۔ ۱۔ مذ) حکومت۔ بادشاہت۔ حکومت سلطنت (۲) بادشاہی
 فرمانروائی (۳) اختیار۔ عملداری (۴) اشتہام سلطنت۔
 راجیہ سبھا۔ (س۔ ۱۔ مٹ) ایوان بالا۔ مجلس اعلیٰ۔
 راجھ۔ (س۔ ۱۔ مذ) جلاہوں کی دندنے دار کنگھی (۲) آکر۔ اوزار (۳) بڑھی
 اور دیگر پیشہ دہوں کے اوزار (۴) لہے کا ٹکڑا جس کے گرد چمکی
 پھرتی ہے (۵) درخت یا ٹکڑی کے اندر کا سخت حصہ۔
 راجھ رکھندے۔ (۱) اوزار۔ آلات (۲) برتن۔ بھانڈے۔
 راجھس۔ (را۔ جھس) (س۔ ۱۔ مذ) (۱) راکشش۔ زبردست۔ سرکش لوگ۔
 عالم۔ جن بھوت۔ پریت (۲) ہندوؤں کے اعتقاد کے مطابق ایک
 سینکوں والی قوم جو راجاؤں کے خلاف رتی تھی۔
 راج۔ (ع۔ ۱۔ مذ) مٹاؤں کے مڑے اڑانا۔ مطلب حاصل کرنے کے قریب
 ہونا (۲) شراب (۳) راحت کی جمع۔ ہتھیلیاں۔
 راحت۔ (را۔ حت) (ع۔ ۱۔ مٹ) (۱) آرام۔ آسائش۔ آسودگی۔ قرار۔
 ٹکھ۔ استراحت (۲) غنت۔ تکلیف یا بے آرامی کا ختم ہو جانا (۳)
 محنت سے آزادی (۴) امن۔ چین۔ سکون۔ کل (۵)
 خوشی۔ مسرت۔
 راحت افزا (رسال)۔ (ع۔ صفت) آرام پہنچانے والا۔
 راحت جان۔ (۱) دل خوش کرنے والا۔ معشوق۔ بیوی اور اولاد
 کے لیے استعمال کرتے ہیں۔
 راحت رسال۔ (ف۔ ۱۔ صفت) آرام پہنچانے والا۔
 راحتتی۔ (را۔ جتی) (ف۔ ۱۔ مٹ) (۱) دھنکا۔ مٹت۔ چھپی (۲)
 جھاڑ (۳) کیف۔
 راجل۔ (را۔ جل) (ع۔ ۱۔ مذ) کوچ کرنے والا۔ مسافر۔
 راجلہ۔ (را۔ ج۔ لہ) (ع۔ ۱۔ مذ) سواری کا جانور۔ جمع: رواجل۔
 راجم۔ (را۔ جم) (ع۔ صفت) رحم کرنے والا۔
 راد (رادھ)۔ (س۔ ۱۔ مٹ)۔ (س۔ ۱۔ مٹ)۔ (س۔ ۱۔ مٹ)۔ (س۔ ۱۔ مٹ)۔ (س۔ ۱۔ مٹ)۔
 راد فٹ۔ (را۔ د۔ فٹ) (ع۔ ۱۔ مٹ) (۱) جو بعد میں آئے (۲)
 صورت اسرافیل کی دوسری آواز۔
 رادھا۔ (را۔ دھا) (س۔ ۱۔ مٹ) (۱) رادھکا۔ کرشن جی کی ایک پیاری گولی۔
 (۲) دھانڈا قدرت۔ فطرت (۳) کامیابی۔ اقبال مندی۔
 رادھا کو یاد کرو۔ (مٹ) جاڑ ہوا کھاؤ۔ اپنا کام کرو۔ ہمیں کچھ پروا نہیں۔
 رادھ۔ (س۔ ۱۔ مٹ) (۱) شور و غل۔ جھگڑا۔ مٹنا۔ فساد۔ لڑائی۔ دنگا (۲)
 پتوں کی جٹ۔
 رادیا۔ (را۔ ڈی۔ یا) (س۔ ۱۔ مذ) (۱) لڑاکا یا جھگڑا لوشخص (۲) مندی۔
 پتہ۔ مندی فقیر۔

راز۔ (ف۔ ۱۔ مذ) بھید۔ خفیہ یا پوشیدہ بات۔
 راز افشا کرنا۔ (۱) عمارت (خفیہ بات ظاہر کر دینا۔ بھید کھول دینا۔
 راز جو۔ (ف۔ صفت) تلاش کرنے والا۔ گفتیش کرنے والا۔
 راز دار۔ (ف۔ صفت) بھیدی۔ واقف کار۔ بھید۔
 راز داری۔ (ف۔ ۱۔ مٹ) بھید چھپانا۔ رخنائے راز۔
 راز دال۔ (ف۔ صفت) بھید جاننے والا۔ واقف کار۔ دوست۔ محرم راز۔
 راز سر۔ (س۔ ۱۔ مذ) راز ہفتہ۔ (ف۔ ۱۔ مذ) ایسا راز جو ابھی ظاہر نہ ہوا ہو۔
 راز فاش کرنا (کھلانا)۔ بھید کھولنا۔ پوشیدہ بات بیان کرنا۔
 راز و نیاز۔ (ف۔ ۱۔ مذ) (۱) عاشق و معشوق کی پوشیدہ باتیں۔ پیار اور
 اخلاص۔ (۲) رمز و کنایہ۔
 راز و نیاز کی باتیں۔ (۱۔ مٹ) پیار و اخلاص کی باتیں۔ عاشق و
 معشوق کے رمز و کنایات۔
 راز نہاں۔ (ف۔ ۱۔ صفت) چھپا ہوا بھید۔
 رازق۔ (را۔ زق) (ع۔ صفت) رزق دینے والا۔ پروردگار۔ خدا تعالیٰ
 کا صفاتی نام۔
 راس۔ (ف۔ ۱۔ مٹ) (۱) خشکی کا وہ حصہ جو در تک پانی میں چلا گیا
 ہو (۲) [صفت] راست کا مختلف۔ دایاں۔ دُست ٹھیک
 موافق۔ سازگار۔
 راس آنا۔ (۱) عمارت موافق آنا۔ ٹھیک ہونا۔
 راس نہیں۔ (۱) نامبارک ہے۔ ناموافق ہے۔
 راس۔ (ع۔ ۱۔ مذ) (۱) سردار۔ حاکم۔ سرگردہ (۲) فرد۔ نقرہ۔
 (۳) راجونیم ستارے کا عربی نام جس کی مدت دورہ ہر برج میں
 ۱۸ ماہ قرار دی گئی ہے (۴) آسمانی برج (۵) تصابوں کی اصطلاح
 بکریوں اور بھیروں وغیرہ کی تعداد ظاہر کرنے کا استعمال کرتے ہیں۔
 (۶) دنت [زادے کی ٹوک۔ جمع اُرؤس۔
 راس الجدی۔ (ع۔ ۱۔ مذ) خط جدی کا وہ نقطہ جب سورج ۲۳ دسمبر
 کو دہاں پہنچتا ہے تو ہمارے ہاں سردیوں کا موسم ہوتا ہے۔
 راس السرطان۔ خط سرطان کا وہ نقطہ جب سورج دہاں ۲۱ جون
 کو پہنچتا ہے تو ہمارے ہاں گرمی کا موسم ہوتا ہے۔
 راس آسمان۔ (ع۔ ۱۔ مذ) برجی۔ سرمایہ۔ اصلی رقم جو کسی تجارت میں
 لگائی جائے۔
 راس چکر۔ (س۔ ۱۔ مذ) منظر البروج۔ آسمان پر ایک خیالی دائرہ جس
 میں بارہ برج واقع ہیں۔
 راس۔ (س۔ ۱۔ مٹ) (۱) ڈھیر۔ انبار۔ کھلیان (۲) طالع۔ نصیب قسمت
 (۳) سود۔ پیاج (۴) بچے کو گود لینا۔ متبئی بنانا (۵) کھیل۔ قماش
 (۶) باگ۔ ڈور۔ لگام۔
 راس اٹھانا۔ (۱) عمارت۔ فصل کے بعد ناع گھر لے جانا۔
 راس پٹھانا۔ راس لینا۔ (۱) عمارت۔ گود لینا۔ متبئی کرنا۔
 راس دھاری۔ (س۔ ۱۔ مذ) ناچنے والا شخص جو کرشن جی اور ان کی گویوں
 کے کھیل کی نقل کرے۔

راس لیلا۔ (۱۰۔ مٹ) کرشن جی اور ان کی گویوں کا کھیل۔
 راس ملنا۔ (۱۰۔ محاورہ) (۱) دو شخصوں کے طالع کا یکساں ہونا (۲) متفق ہونا۔ موافقت ہونا۔
 راس نشین۔ (۱۰۔ صفت) گودلیا جو اڑا کا۔
 راس نہ ہونا۔ (۱۰۔ محاورہ) موافق نہ ہونا۔ مزاج کے خلاف ہونا (۲) کاروبار کے لیے روپیہ نہ ہونا۔
 راست۔ (۱۰۔ صفت) (۱) سیدھا۔ دیاں (۲) سچ۔ ٹھیک۔ درست۔ (۳) سازگار۔ موافق۔
 راست آنا۔ (۱۰۔ محاورہ) سازگار ہونا۔
 راست اقدام۔ (۱۰۔ صفت) (۱) صحیح اقدام (۲) براہ راست کارروائی جو کسی مطالبہ کے منانے کے لیے کی جائے (انگ) (Direct Action)
 راست باز۔ (۱۰۔ صفت) سچا۔ ایماندار۔ دیانت دار۔
 راست بازی۔ (۱۰۔ صفت) ایماندار۔ سچائی۔ دیانت داری۔
 راست رو۔ (۱۰۔ صفت) (۱) سیدھا چلنے والا (۲) ایماندار۔
 راست گفتار۔ راست گو۔ (۱۰۔ صفت) سچ بولنے والا۔ صاف گو۔
 راست گفتاری۔ راست گوئی۔ (۱۰۔ صفت) سچ بولنا۔ سچ گوئی۔
 راست معاشرہ۔ (۱۰۔ صفت) وہ جو دین میں صاف یا ایماندار ہو۔
 راستہ۔ (۱۰۔ صفت) (۱) سڑک۔ رستہ۔ راہ (۲) رسم۔ رواج۔ دستور۔ قاعدہ (۳) ڈھنگ۔ طریقہ۔
 راستہ بتانا۔ (۱۰۔ محاورہ) (۱) راستہ دکھانا۔ رستے پر ڈالنا (۲) ہدایت کرنا۔ (۳) مثال دینا۔ چلنے والے کو رہنا۔
 راستہ بچانا۔ راستہ کترانا۔ (۱۰۔ محاورہ) ایک طرف ہو کے نکل جانا۔
 راستہ بھٹکانا۔ (۱۰۔ محاورہ) بے راہ جو جانا۔ سیدھے راستے پر نہ رہنا۔
 راستہ دکھانا۔ (۱۰۔ محاورہ) راہ بتانا۔ راہنمائی کرنا (۲) انتظار کرنا۔
 راستہ دیکھنا۔ (۱۰۔ محاورہ) انتظار کرنا۔
 راستہ کاٹ کے چلنا۔ راستہ کترانا۔ (۱۰۔ محاورہ) راستہ بچا کر نکل جانا۔
 راستہ کو (ناپو)۔ (۱۰۔ صفت) چلے جاؤ۔ چلتے ہو۔
 راستہ لینا۔ (۱۰۔ محاورہ) روانہ ہونا۔ چلے جانا۔
 راستہ ناپینا۔ (۱۰۔ محاورہ) چلے جانا۔ تھوڑی دیر کے لیے آنا۔
 راستی۔ (۱۰۔ صفت) (۱) صحت۔ سچائی۔ صدق (۲) ایماندار۔ دیانتداری (۳) سیدھا ہونا (۴) درست ہونے کی حالت۔
 راستی پر آنا۔ (۱۰۔ محاورہ) (۱) سچ بولنا (۲) سیدھے راستے پر آنا۔
 راستی سے۔ (۱۰) (۱) نرمی سے (۲) ایماندار سے۔ دیانت داری سے (۳) انصاف سے۔ سچائی سے۔
 راستی کا چلن۔ (۱۰۔ صفت) ٹھیک چلنی۔
 راستی موجب رضائے خدا است۔ (۱۰۔ صفت) سچائی سے خدا خوش ہوتا ہے۔

راسخ۔ (۱۰۔ صفت) (۱) صفت) پکا۔ مضبوط۔ اٹل۔
 راسخ الاعتقاد۔ (۱۰۔ صفت) پکے ارادے کا۔ مضبوط ایمان کا۔
 راسو۔ (۱۰۔ صفت) (۱) مذ۔ نیولا۔
 راسی۔ (۱۰۔ صفت) (۱) مذ (۲) اوسط نسل کا گھوڑا (۳) بے پروا (۴) (۳) صفت) معمولی۔
 راشد۔ (۱۰۔ صفت) (۱) صفت) ہدایت پانے والا۔ ہدایت یافتہ۔
 راشن۔ (Ration) (۱۰۔ صفت) (۱) انگ۔ (۲) مذ (۳) لاتب۔ بخوراک (۴) مقررہ مقدار جو ایک بار ملے۔
 راشن ڈپو۔ (Ration Depot) (۱۰۔ صفت) (۱) انگ۔ (۲) مذ (۳) لاتب۔ بخوراک۔
 راشن کارڈ۔ (Ration Card) (۱۰۔ صفت) (۱) انگ۔ (۲) مذ (۳) لاتب۔ بخوراک۔
 راشن کی مقدار اور کارڈ والے کا نام و پتہ درج ہو۔
 راشنی۔ (۱۰۔ صفت) (۱) صفت) رشوت دینے والا (عام بول چال میں رشوت لینے والا۔
 راضی۔ (۱۰۔ صفت) (۱) شاد۔ خوش۔ رضامند (۲) (۳) صابر۔ شاکر۔ (۴) تندرست۔
 راضی برضا۔ (۱۰۔ صفت) خدا کے حکم پر راضی۔ خدا کی مرضی کو تسلیم کرنے والا۔
 راضی خوشی۔ (۱۰۔ صفت) (۱) ٹھیک ٹھاک۔ تندرست۔ رضامندی سے۔
 راضی نامہ۔ (۱۰۔ صفت) (۱) مذ (۲) باہمی فیصلے کی وہ تحریر جو سرکار میں فریقین کی رضامندی سے داخل کی جاتی ہے۔ صلح نامہ۔
 راعی۔ (۱۰۔ صفت) (۱) مذ (۲) جروا (۳) کنایتاً بادشاہ۔
 راع۔ (۱۰۔ صفت) (۱) مذ (۲) پھاڑ کے نیچے کامیڈان (۳) سبزہ زار (۴) جنگل۔
 راجب۔ (۱۰۔ صفت) (۱) مذ (۲) نائل۔ خواہش مند۔
 رافت۔ (۱۰۔ صفت) (۱) مذ (۲) مہربانی۔ رحمت کی شدت۔
 راضی۔ (۱۰۔ صفت) (۱) مذ (۲) وہ گروہ جو اپنے سردار کو چھوڑ دے (۳) مرد اور آج وہ پروان زید بن علی بن حسین جنہوں نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ جمع روافض۔
 رافع۔ (۱۰۔ صفت) (۱) بلند کرنے والا (۲) حرف کو پیش لینے والا (۳) راقب۔ (۴) صفت) رقیب (۵) دیکھنے والا۔ نگاہ رکھنے والا۔
 راجم۔ (۱۰۔ صفت) (۱) مذ (۲) کاتب۔ لکھنے والا۔ نویندہ۔
 راقم الحروف۔ (۱۰۔ صفت) (۱) مذ (۲) حرفوں کا لکھنے والا۔ نویندہ۔
 راکب۔ (۱۰۔ صفت) (۱) مذ (۲) جانور یا جہاز پر سوار ہونے والا۔ سوار۔
 راکٹ۔ (Raket) (۱۰۔ صفت) (۱) انگ۔ (۲) مذ (۳) بان۔ گول اور مخروطی شکل کا خود کار بم۔
 راکٹ۔ (۱۰۔ صفت) (۱) مذ (۲) کم درجے کی زمین جس میں صرف خلیات کی فصل بونی جاتی ہے۔
 راکد۔ (۱۰۔ صفت) (۱) مذ (۲) پانی۔ بند پانی۔
 راکب۔ (۱۰۔ صفت) (۱) مذ (۲) جنگلوں میں رہنے والا وحشی آدمی۔
 راج۔ (۱۰۔ صفت) (۱) مذ (۲) کوہ کرنے والا۔ عبادت کرنے والا۔
 راکھ۔ (۱۰۔ صفت) (۱) مذ (۲) جھم۔ جھموت۔ بھول۔ کسی جلی ہوئی چیز کی خاک

راگھ جھاڑنا۔ کوٹلوں یا اٹیوں سے راگھ علیحدہ کرنا۔
 راگھ سر پر ڈالنا۔ (۱- محاورہ) سخت غم کا اظہار۔
 راگھی۔ (را-کھی) (۱-۱۰-۱) مٹھ رکھا یعنی محافظت کرنے والا ڈورا۔ ہندو
 یہ رنگین ڈورا سلونکے تہوار میں کلائی پر باندھتے ہیں۔ رکھڑی۔
 راگ۔ (۱-۱-۱) [مذ] (۱) لغت۔ ترانہ۔ لے۔ سر (۲) قصہ۔ کہانی (۳) جھگڑا۔
 فساد (۴) رنگ۔ برن (۵) جوش۔ دلہ (۶) محبت۔ اُلفت شفقت
 (۷) رنج و غصہ (۸) خواہش۔
 راگ الاپنا۔ (۱- محاورہ) راگ گانا۔ اپنی ہی کہے جانا۔
 راگ دینا۔ (۱- محاورہ) (۱) دم دینا۔ دھوکا دینا (۲) بیٹھک دینا۔ کرسی
 کے نام کا گانا کرنا۔
 راگ رنگ۔ (۱- مذ) رنگ رلیاں عیش و عشرت کھیل۔ تماشا۔
 راگ گانا۔ (۱- محاورہ) گیت گانا۔ قصہ سنانا۔ سرگزشت سنانا۔
 پتوں کا رونا۔
 راگ لانا۔ (۱- محاورہ) جھگڑا نکالنا۔ ستانا۔ بھڑا پھیلانا (۲) کھیلنا (۳)
 جوش اور دلہ لے میں آنا۔
 راگ مالا۔ (۱- مذ) (۱) مٹھ، وہ کتاب جس میں راگ کے اصول اور مختلف
 وانگینوں کا بیان درج ہو (۲) لمبا قصہ۔
 راگنی۔ (۱- مذ) (۱) مٹھ (۲) راگ کی ایک شاخ (۳) راگ کا ہر
 شعبہ (کل راگوں کی چھتیس راگنیاں ہیں (۴) بدکار عورت۔
 راگی۔ (۱- مذ) (۱) مٹھ (۲) کلاسیکی موسیقی کا ماہر۔ گویا۔
 رال۔ (۱- مذ) (۱) مٹھ (۲) کتاب دہن۔ مٹھ کا جیب (۳) چیر کا گوڈ۔
 رال بہنا۔ (۱- محاورہ) مٹھ سے کتاب نکلنا۔
 رال ٹھیکنا۔ (۱- محاورہ) (۱) مٹھ سے رطوبت کا ٹھیکنا (۲) مزے کے مارے
 مٹھ میں پانی بھر آنا۔ (۳) عاشق ہونا۔
 رام۔ (۱- مذ) (۱) مٹھ۔ تابع۔ مطیع۔ فرمانبردار
 رام کرنا۔ (۱- محاورہ) تابع کرنا۔ قابو میں لانا۔ راضی کرنا۔
 رام۔ (۱- مذ) (۱) پریشور۔ پروردگار (۲) پر سرام۔ دشمن اور رام
 چندر جی کا خطاب (۳) دھن (۴) خوشگوار (۵) خوبصورت (۶) سیاہ۔
 رام بھجن۔ (۱- مذ) (۱) یاد خدا۔ مناجات۔
 رام بھجو۔ (۱- مذ) (۱) روزمرہ خدا کا نام لو۔ باز آؤ۔
 رام بنا دکھ کون سرے۔ برکھا بن ساگر کون بھرے {
 پھی بی بن آدر کون کرے۔ ماتا بن بھوجن کون دھرے {
 (۱) پیش خدا دکھ کو دور کرتا ہے۔ بارش سندر کو بھرتی ہے۔
 دولت عزت کراتی ہے۔ اور ماں کھانے کو دیتی ہے۔
 رام بھر دسا بھاری ہے۔ (۱) پیش خدا پر بھر دسا کرنا بہت اچھی بات ہے
 رام پھیل۔ (۱- مذ) (۱) مٹھ کا قسم کا مٹھ رنگ۔ ترشی مائل شریف جو
 رام چندر جی کو بہت مرغوب تھا۔
 رام تری۔ (۱- مذ) (۱) مٹھ کا ایک قسم کا کدو۔ گھٹیا۔
 رام جتی۔ (۱) (ہندو) زندگی۔ بیوا۔
 رام بھر دے بیٹھ کے سب کا بھرا لیت جیسی جاکی چاکری ویسا

اس کو دیت۔ (۱) مٹھ، خدا سر ایک کو اس کی کوشش کے مطابق دیتا ہے۔
 رام چھوڑی اچھو دھیا مٹھ بھاوے سولے۔ (۱) مٹھ (۲) جو چیز چھوڑ
 دی اس سے کچھ مطلب نہیں۔ خواہ اسے کوئی لے لے۔
 رام دانہ۔ (۱- مذ) (۱) ایک قسم کا بیج جس کی مالا بناتے ہیں۔
 رام کوٹلی۔ (۱- مذ) (۱) مٹھ (۲) خدا کی قسم (۳) خدا کی پناہ۔
 رام راج۔ (۱- مذ) (۱) ہندوؤں کی مذہبی حکومت۔
 رام رام۔ (۱- مذ) (۱) ہندوؤں کا باہمی سلام (۲) صاحب سلامت
 (۳) توبہ توبہ۔
 رام رام چینا۔ پرایا مال اپنا۔ (۱) مٹھ (۲) ظاہر ہر میزگاری اور باطن
 میں بے ایمانی۔
 رام رس۔ (۱- مذ) (۱) ذوق الہی (۲) نیک۔
 رام رنگی۔ (۱- مذ) (۱) مٹھ (۲) شراب۔ شراب کو یہ نام بھی لکھنے دیا تھا۔
 رام رولا۔ (۱- مذ) (۱) مذہبی جوش (۲) مناجات خوانی (۳) مٹھ شور۔
 رام گلی۔ (۱- مذ) (۱) مٹھ (۲) ایک راگنی کا نام جو صبح کے وقت گائی جاتی ہے۔
 رام کی مایا۔ (۱- مذ) (۱) مٹھ (۲) قدرت کے کھیل۔
 رام کی مایا کہیں دھوپ کہیں چھایا۔ (۱) مٹھ (۲) خدا کی قدرت ہے۔
 کہیں دھوپ ہے کہیں چھاؤں۔ کہیں دکھ ہے کہیں مٹھ۔
 رام لیلا۔ (۱- مذ) (۱) مٹھ (۲) دہرے کا لیلا۔ رام چندر جی کی فتوحات کی نقل
 جو ہندو دہرے کے مٹھ پر کرتے ہیں۔
 رام ملائی جوڑی۔ ایک اندھا ایک کوڑی۔ (۱) مٹھ (۲) دونوں ایک
 بیسے بد معاش۔
 رام نومی۔ (۱- مذ) (۱) رام چندر جی کا جنم دن۔ ہندوؤں کا وہ تہوار جو چیت
 کے پھلے پاکھ کی نویں تاریخ کو منایا جاتا ہے۔
 رامانندی۔ (۱- مذ) (۱) مٹھ (۲) ہندوؤں کا وہ گروہ جو رام
 کے سوا دوسرے کو نہیں مانتا۔
 رامائین۔ (۱- مذ) (۱) مٹھ (۲) نظم کی کتاب جو پہلے بائبل جی نے سنسکرت
 میں اور پھر تسمی داس نے ہندی میں رام چندر جی کے حالات میں لکھی۔
 رامش۔ (۱) مٹھ (۲) (۱) مٹھ (۲) آرام۔ آسائش۔ استراحت (۳)
 خوشی۔ مسرت (۴) خوشی میں گانا (۵) صلاح۔ مشورہ (۶) سرور کا
 میل۔ ہم سازی۔
 رامش جان۔ (۱- مذ) (۱) ایک مٹھ کا نام (۲) تیس میں سے آٹھویں
 نئے کا نام جو بارہ نے ایجاد کئے تھے۔
 رامش گر۔ (۱) مٹھ (۲) گویا۔ مٹھ۔ گانے والا (۳) عیاش۔
 رامش گری۔ (۱) مٹھ (۲) گانا بجانا (۳) گنگو۔
 رامش دلنگ۔ (۱) مٹھ (۲) نایب گانا۔ عیش و عشرت۔
 ران۔ (۱) مٹھ (۲) ٹانگ کا گھٹنے سے اُپر کا حصہ (۳) [اگر] آسن۔
 بیٹھک۔
 ران اکھڑنا۔ (۱) محاورہ) گھوڑے پر سوار کی ران کا اپنی جگہ سے ہٹ جانا۔
 ران تلے آنا۔ (۱) محاورہ) (۱) ران کے نیچے آنا۔ سواری دینا (۲) قابو
 میں آنا۔

ران بھنا۔ (۱۔ محاورہ) سوار کاران کو مضبوطی سے جاملینا۔ اپنی جگہ سے نہ ہٹنا۔
 ران سے ران باندھنا۔ (مش) زانوسے زانوسے باندھ کر بچھانا۔ گھٹنے سے لگا کر بھٹانا (۲) دُور نہ ہونے دینا۔
 رانا۔ (راننا) (۱۔ مذ) (۲) چھوٹا سا راجا۔ ٹھاکر (۲) راجپوتوں کا ایک فرقہ (۳) راجپوتوں کا ایک خطاب جو راجا کے بیٹے کو بتاتا ہے۔
 رانجھنا۔ (رانجھنا) (۱۔ مح) (۲) گائے کا چلانا۔ گائے کا صبح کے وقت بولنا۔
 رانی۔ (ران) (پنی) (۱۔ مش) (۲) دیکھنے والی۔
 رانجھا۔ (پ۔ مذ) ایک پنجابی عاشق جس کی محبوبہ میر تھی۔
 رانجھن۔ (ران) (جھن) (۱۔ مذ) مٹی کا بڑا ٹکڑا۔
 رانجھن۔ (رانجھنا) (ران) (جھن) (۱۔ مذ) (۲) عاشق۔ محبوب۔ پیارا۔ مستحق (۲) عزت والا شخص۔
 رانڈ۔ رانڈھ۔ (۱۔ مش) (۲) جھگڑا۔ ٹٹا۔ بھگڑا۔
 رانڈھ کاٹنا۔ (۱۔ محاورہ) جھگڑا ختم کرنا۔ فیصلہ کرنا۔
 رانڈہ۔ (ران) (۱۔ صفت) نکالا ہوا۔ دھٹکارا ہوا۔ خارج۔
 رانڈہ درگاہ۔ (۱۔ مذ) وہ شخص جو درگاہ الہی یا دربار بادشاہی سے نکالا گیا ہو۔ مردود۔
 رانڈھنا۔ (رانڈھنا) (۱۔ مح) پکانا۔ رینڈھنا (۲) پرخ پھلانا۔
 رانڈ۔ (۱۔ مش) (۲) بیوہ عورت۔ وہ عورت جس کا خاوند مر گیا ہو (۲) محتاج۔ دست نگر (۳) رنڈی۔ کسی۔ بیوا (۴) لونڈی۔ کینز۔
 رانڈ اور کھانڈ کا جو بن رات کو۔ (ایش) عورت اور کھانڈرات کے وقت اچھی معلوم ہوتی ہیں۔
 رانڈر ہے جو رنڈو سے رہنے دیں۔ (۱۔ مش) عورتیں بدچلن نہ ہوں اگر مردان کا پیچھا کرنا چھوڑ دیں۔
 رانڈ۔ بھانڈ۔ سانڈ۔ بگڑے بڑے۔ (ایش) ان تینوں کے ساتھ دشمنی نہیں رکھنی چاہیے۔ رانڈ بھاگ جاتی ہے۔ بھانڈ بدنام کرتا ہے۔ سانڈ مارتا ہے۔
 رانڈر ونا۔ (۱۔ مذ) (۲) عورتوں کا سار ونا۔ بیوہ کی طرح رونا (۲) بے لطف اور بے مزہ کہانی (۳) قصہ تم۔ پیتا۔
 رانڈر ووسے۔ کواری ووسے، ساتھ لگی ست خصمی ووسے (مش) رانڈر ووتی ہے اس کا خاوند مر گیا۔ کنواری روتی ہے اس کا باپ مر گیا۔ ست خصمی کیوں روتی ہے وہاں کہتے ہیں جہاں کوئی دکھانے کے لیے ہمدردی ظاہر کرے۔
 رانڈ کا سانڈ۔ (۱۔ صفت) (۲) وہ شخص جو بیوہ ماں کی کمانی کھا کر پلا ہو۔
 نالائش بیٹ (۲) بے پروا۔ نڈر۔ بے باک۔ آوارہ۔
 رانڈ کا سانڈ سوداگر کا کھوڑا۔ کھاوسے بہت چلے تھوڑا (ایش) خود سہ اور ناز پروردہ آدمی اور سوداگر کا کھوڑا دیکھنے کی چیزیں ہیں۔
 کام کو نہیں۔
 رانڈ کی کاٹھ میں مال کا ٹوک۔ (ایش) رانڈ کے پاس روپے پیسے کی بہت کمی ہوتی ہے۔

رانڈ کے چرنے کی طرح چلا ہی جا رہا ہے۔ (ایش) بہت بک بک کرتا ہے۔ بڑا بکواسی ہے۔
 رانڈا۔ (ران) (ڈا) (۱۔ مذ) (۲) خجریں (۲) وہ شخص جس کی بیوی مر گئی ہو۔ رنڈو (۳) درخت جو پھل نہ دے۔
 رانڈا گیا سگائی کو۔ آب کو لائے یا بھائی کو (ایش) جہاں کوئی کام کرنے والا چلے اپنے لیے کرے اور پھر دوسرے کے لیے وہاں کہتے ہیں۔ ایسے آدمی کو کام نہیں کہنا چاہیے۔
 رانگ۔ (۱۔ مذ) ایک نرم دھات۔ قلعی۔ رانگا (۲) ایک قسم کا عمدہ سیسہ۔
 رانگ بھریا۔ (۱۔ مذ) وہ شخص جو رانگ کا زیور اور کھلونے بنا کر بیچتا ہے۔
 رانگ ہونا۔ (۱۔ محاورہ) (۲) نرم ہونا۔ پگھلنا (۲) غصہ دُور ہونا۔
 رانگ ہیرے کو کاٹتا ہے۔ (ایش) بھی ناتواں زبردست پر غالب آجاتا ہے۔
 رانگا۔ (۱۔ مذ) قلعی۔ رانگ۔
 رانگھڑ۔ (ران) (گھڑ) (۱۔ مذ) ایک نوسلم قوم جو پہلے راجپوتوں میں شمار کی جاتی تھی۔
 رانوال۔ (راوال) (۱۔ مذ) (۲) ق۔ (۱۔ مذ) طوطا۔
 رانوں پر ہاتھ مارنا۔ (۱۔ محاورہ) افسوس کرنا۔ ماتم کرنا۔
 رانی۔ (رانی) (۱۔ مش) (۲) (۱) ملکہ۔ (۲) راجا کی بیوی (۲) معزز ہندو عورتوں کا خطاب۔
 رانی خاں کا سالار۔ (۱۔ مذ) (۲) محتار (۳) زبردست۔ بکتیر۔ معزز۔ پیشانی باز۔
 رانی دیوانی ہوئی اوروں کو پتھر اپنوں کو لڈو مارے۔ (ایش) دیوانہ بکار خویش ہو شمار۔ ان کی دیوانگی میں بھی اپنا ہی فائدہ ہے۔
 رانی روٹے کی۔ اپنا سہاک لے گی۔ کیا کسی کا بھاگ لے گی (ایش) رانی ناراض ہوگی تو اپنا ہی نقصان کرنے لگی۔ کسی کا نصیب نہیں چھین سکتی۔ کسی کے روٹھ جانے کی پروا نہ ہونے کے موقع پر یہ مثل کہتے ہیں۔
 رانی کو باندی کہا۔ مس دی۔ باندی کو باندی کہا۔ رودی۔ (ایش) شریف کو کینڈہ ہوتو وہ پروا نہیں کرتا، لیکن کینڈے کو کینڈہ ہوتو اسے بڑا معلوم ہوتا ہے۔
 رانی کو رانا پیارا۔ کافی کو کانا پیارا۔ (ایش) ہر شخص کو اپنا ہم جنس پیارا ہوتا ہے۔
 رانی کو کون کے آگ ڈھک۔ (ایش) بڑے آدمیوں کو غلطی کرتے ہوئے دیکھ کر کون ٹوک سکتا ہے۔
 رانی کھیت۔ (۱۔ مذ) مرغیوں کی ایک عام بیماری۔
 رانی کھن۔ وہ خانگی لڑائی جو مدت تک ٹھہری رہے (پچاناکے ساتھ)۔
 رانی کٹیں پاٹ۔ لائیں رکھ کر چلی کے پاٹ۔ (مش) بڑے آدمی بعض وقت فضول چیزیں خرید لیتے ہیں۔
 راقوت۔ (راقوت) (۱۔ صفت) (۲) بہادر۔ شجاع۔ سورما (۲) راجپوتوں کی ایک قوم (۳) خاکدہوں کی ایک اعلیٰ قوم جو دوسروں کا جوٹا نہیں کھاتی۔

راول - (۱-۱) ول (۱-۱) مذ (۱) سردار - افسر زور آرد (۲) سپاہی - پیادہ -
 (۳) دین (جوگی (۴) تمال - جوتشی -
 راوی - (۱-۱) وی (۱-۱) مذ (۱) روایت کرنے والا - سن کہنے والا -
 ناقل - مؤرخ - مصنف -
 راہ - (۱-۱) مذ (۱) راستہ - مرگ - طریق (۲) غرض - مطلب (۳)
 ڈھب - وضع (۴) میل جول - آشنائی - دوستی (۵) خبر - آگاہی (۶)
 موقع - محل - تہ سیر (۷) حیلہ - بہانہ -
 راہ باندھنا - (۱-۱) محاورہ (۱) راستہ روکنا - داخل نہ ہونے دینا - روکنا -
 راہ بنانا - (۱-۱) محاورہ (۱) راستہ دکھانا - ہدایت کرنا - طریقہ بتانا (۲) مال دینا
 (۳) نکال دینا - موقوف کر دینا (۴) دھوکا دینا - دم دینا (۵) ڈھنگ دکھانا
 (۶) رشتہ کرنا - ٹالنا -
 راہ بڑ - راہنما - (۱) فادی - راہنما پیشوا (۲) سردار -
 راہ بزمی - (۱-۱) مذ (۱) راہنما - ہدایت - راستہ دکھانا -
 راہ بند کرنا - (۱-۱) محاورہ (۱) راستہ روکنا - کوئی طریقہ باقی نہ رہنے دینا -
 راہ بھٹکانا - (۱-۱) محاورہ (۱) غلط راستے پر چل نکلنا -
 راہ بانا - (۱-۱) محاورہ (۱) موقع پانا - گنجائش پانا -
 راہ پرا آنا - (۱-۱) محاورہ (۱) ہنسنا ماننا - موافق ہو جانا - نیک بننا - سیدھے
 راستے پر آ جانا -
 راہ پر لانا - (۱-۱) محاورہ (۱) سیدھا راستہ بتانا - ڈھب پر لانا (۲) اصلاح
 کرنا - نیک بنانا (۳) راضی کرنا - یار بنانا -
 راہ پر لگانا - (۱-۱) محاورہ (۱) اپنے ڈھب پر لے آنا - اپنی مرضی کے مطابق
 بنا لینا -
 راہ پڑنا - (۱-۱) محاورہ (۱) درست راستے پر آ جانا - ایک دوسرے پر اعتبار کرنا -
 راہ پھٹنا - (۱-۱) محاورہ (۱) راستے کا دوسرے سے علیحدہ ہو جانا -
 راہ پڑے چھینے یا باہ پڑے چھینے - (۱) ایشل (۱) نئے آدمی کی اصلیت
 ہم سفر ہونے یا واسطہ پڑنے سے معلوم ہوتی ہے -
 راہ پیدا کرنا - (۱-۱) محاورہ (۱) راستہ دریافت کرنا - دوستی پیدا کرنا - کسی کام
 میں واقفیت حاصل کرنا -
 راہ پیمیا - (۱-۱) مذ (۱) راہ رو - راستہ چلنے والا - مسافر -
 راہ تکنا - (۱-۱) محاورہ (۱) انتظار کرنا - دیکھنے راہ دیکھنا -
 راہ چینی - (۱-۱) مذ (۱) ششہ آفرخت - وہ تمھاری جو ہندو مڑوسے کی
 نجات کے لیے برہمنوں کو دیتے ہیں -
 راہ چلتا - (۱-۱) مذ (۱) راہ گیر - مسافر - راہ رو - راستے میں گزرنے والا -
 راہ چلتوں کا پلہ پکڑنا - (۱-۱) محاورہ (۱) راہ گیروں کے سر ہونا - خواہ مخواہ
 کسی سے لڑنا -
 راہ چلنا - (۱-۱) محاورہ (۱) راستے پر چلنا - طریقہ یا ڈھنگ اختیار کرنا -
 راہ چھوڑ کر گراہ چلنا - (۱-۱) محاورہ (۱) راہ راست سے بھٹکانا - گراہ ہونا -
 بڑے ڈھنگ سے چلنا -
 راہ چلے یا پاس بسے جب چھینے - (۱) ایشل (۱) دیکھے راہ پڑے جانے
 یا باہ پڑنے جانے -

راہ حقیقت - (۱-۱) مذ (۱) سچائی کا راستہ - درست راستہ -
 راہ دار - چوکیدار - مرگ کا رکھوالا - راستے کا حصول لینے والا -
 راہ داری - (۱-۱) مذ (۱) راستے پر چلنے کا اجازت نامہ (۲) پاسپورٹ
 (۳) راستے کا حصول -
 راہ داری کا پروانہ - وہ اجازت نامہ جو کسی حاکم کی طرف سے کسی شخص
 کے لیے راستے سے گزر جانے کی غرض سے محافظان راہ کے نام
 لکھا جائے -
 راہ درپیش ہونا - (۱-۱) محاورہ (۱) سفر آگے ہونا -
 راہ دکھانا - راہ دکھلانا - (۱-۱) محاورہ (۱) انتظار کرنا (۲) راستہ بتانا -
 راہ دیکھنا - (۱-۱) محاورہ (۱) انتظار کرنا - آس کرنا -
 راہ دینا - (۱-۱) محاورہ (۱) آنے جانے کے لیے راستہ چھوڑنا (۲) مال یا
 استارے کی اجازت دینا -
 راہ راست - (۱-۱) محاورہ (۱) سیدھا راستہ - صراط مستقیم - نیک چلنی -
 راہ راہ جانا - (۱-۱) محاورہ (۱) سیدھے راستے جانا (۲) چال چلن نیک رکھنا
 (۳) متوسط طریقہ اختیار کرنا -
 راہ رسم کرنا - (۱-۱) محاورہ (۱) دوستی پیدا کرنا - شناسائی کرنا -
 راہ رکھنا - (۱-۱) محاورہ (۱) تعلق رکھنا - دوستی رکھنا - میل جول رکھنا -
 راہ رو - (۱-۱) مذ (۱) راہ گیر - مسافر - راہی -
 راہ روشن - (۱-۱) مذ (۱) چال چلن - برتاؤ (۲) ڈھنگ (۳) ادب
 (۴) قواعد (۵) خصلت -
 راہ ریمت - (۱-۱) مذ (۱) راہ رو و رواج (۲) ضابطہ (۳) معمول -
 راہ زن - (۱-۱) مذ (۱) بیٹرا - ڈاکو - بیٹ مار - قزاق -
 راہ زنی - (۱-۱) مذ (۱) قزاق - ڈکیتی -
 راہ سر - راہ سے - ڈھنگ سے - سیدھی طرح - انصاف سے -
 راہ سو بھٹنا - (۱-۱) محاورہ (۱) سمجھ میں آنا - تدبیر سو بھٹنا -
 راہ سے لے راہ ہونا - (۱-۱) محاورہ (۱) سیدھا راستہ چھوڑ کر دوسری راہ چلنا -
 راستہ تبدیل کرنا - بد وضع و ادب باش ہونا - گراہ ہونا -
 راہ سے پھرنا - (۱-۱) محاورہ (۱) آتے آتے راستے میں سے لوٹ جانا - کسی
 مسلک یا نظریہ کو چھوڑ دینا -
 راہ طے کرنا - (۱-۱) محاورہ (۱) راستہ چلنا -
 راہ فرار اختیار کرنا - (۱-۱) محاورہ (۱) بھاگ جانا -
 راہ کاٹنا - راستہ چلنے کے آگے سے نکل جانا - ایک راستہ چھوڑ کر دوسرے
 سے جانا - راہ چلنے میں مانع ہونا -
 راہ کتر کر نکل جانا - (۱-۱) محاورہ (۱) کسی کو دیکھ کر دوسرے راستے کی طرف
 چلے جانا -
 راہ کٹنا - (۱-۱) محاورہ (۱) منزل طے ہونا - راستہ لورا ہونا -
 راہ کھلنا - راستہ پیدا ہونا - تدبیر نکلنا -
 راہ کھولی کرنا - (۱-۱) محاورہ (۱) چلنے میں دیر لگانا (۲) چلنے کام میں روٹا
 ٹکانا - جرح کرنا - خصل انداز ہونا کسی کام بگاڑنا -
 راہ کی بات - (۱) مذ (۱) کنایت (۲) واجبی بات - سخن شانستہ -

راہجو۔ (را۔ جو) (ہ۔ ا۔ مذ) (۱) دیو۔ مجھوت۔ جتن (۲) ایک ستارہ۔ راس۔
 راہی۔ (را۔ ہی) (ف۔ ا۔ مذ) مسافر۔ راہ رُو۔ راہ گیر۔
 راہتا۔ (را۔ ج۔ تا) (ہ۔ ا۔ مذ) ایک قسم کی خرداک جو بینگن۔ کتدو وغیرہ کو گرم
 رکھ جس مجلس کر یا بال کر دی میں ڈال کر بناتے ہیں۔
 راہتا بنانا۔ (را۔ محاورہ) (۱) بھرتا بنانا (۲) خوب مارنا پیشنا۔ کچور نکالنا۔
 راہٹر۔ (Writer) (انگ۔ ا۔ مذ) محتر۔ منشی۔ کلرک۔ کاتب۔
 راقم (۲) مصنف۔ ادیب۔
 راج۔ (را۔ ج) (ج۔ صفت) (۱) جاری۔ رواں۔ عام (۲) رسمی۔ دستور
 کے مطابق۔
 راج الوقت۔ (ف۔ ا۔ مذ) (۱) زمانے کا دستور یا فیشن (۲) سکہ جو
 جاری ہو۔
 راج کرنا۔ (مسن۔ مرکب) جاری کرنا۔ رواج دینا۔
 راجھ۔ (ج۔ ا۔ مذ) چاک سوار۔ گھوڑے کو سدھانے والا۔
 راجھ۔ (را۔ ا۔ ج) (ج۔ ا۔ مذ) خوشبو۔ جمع، راجھات۔
 راجھل۔ (Rifle) (را۔ ا۔ سے۔ نقل) (انگ۔ ا۔ صفت) ایک نالی بندش
 جس کے اندر دنی جھتے میں چھریاں بنی ہوتی ہیں جن سے گولی پکڑ
 کھاتی ہوئی بھلتی ہے۔
 رانگان۔ (را۔ ا۔ سے۔ گان) (ف۔ صفت) (۱) بے کار۔ فضول۔ اکارت
 (۲) [اُر] ضائع۔ لا حاصل۔ عبث۔
 رانگیٹی۔ (Royalty) (را۔ ال۔ ٹی) (انگ۔ ا۔ صفت) مساوندہ جو
 نامش مصنف کو یا کان کنی کا ٹیکس داری زمیندار کو دے۔
 راؤ۔ (ہ۔ ا۔ مذ) (۱) کنور۔ راجا کا بیٹا (۲) ہندوؤں کے لیے ایک سرکاری
 خطاب (۳) بڑا (۴) سردار۔
 راؤ جاؤ۔ (ہ۔ ا۔ مذ) لاؤ پیار۔ اخلاص۔ ناز و خزا۔ پہل۔ مزاج۔
 دل لگی۔
 راؤٹی۔ (را۔ ا۔ ٹی) (ہ۔ ا۔ صفت) (۱) چھوٹا تنبو۔ چھوٹا داری (۲)
 بالا خانہ۔ چوبارا۔
 راؤنڈ۔ (Round) (را۔ اُنڈ) (انگ۔ ا۔ مذ) (۱) دُور۔ پھیرا (۲)
 چکر۔ دائرہ۔ گھیرا۔ جلقہ (۳) صفت) گول۔ مدور۔ بیضی۔
 راؤنڈ اباؤٹ۔ (Round About) وہ جگہ جہاں سے گاڑیوں
 کو چکر کاٹ کر جانا پڑتا ہے۔ چکر چوک۔
 راٹی۔ (را۔ ا۔ ٹی) (ہ۔ ا۔ صفت) (۱) ایک قسم کی سرسوں۔ خردل (۲) ذرا
 سی مقدار۔
 راٹی اتارنا (جملانا)۔ (را۔ محاورہ) کسی کو نظر بد سے محفوظ رکھنے کے لیے
 اس کے سر پر سے راٹی اتار کر جملانا۔
 راٹی بھر۔ (ا۔ صفت) ذرا سا۔ قدر سے۔ قلیل۔
 راٹی بھر سگائی۔ پیٹھا بھر چریت۔ راٹی بھرنا طہ گاڑی بھر آسانی۔
 (ا۔ صفت) ذرا سا رشتہ بہت سی محبت سے بہتر ہے۔
 راٹی سے پریت ہونا۔ (را۔ محاورہ) نہایت چھوٹے سے بہت بڑا ہو
 جانا۔ بڑھ جانا۔

راہ گریز اختیار کرنا۔ (را۔ محاورہ) بھاگ جانا۔ فرار ہونا۔
 راہ گزر۔ (ا۔ مذ) راستہ۔ مرگ۔ شارع۔
 راہ گلی میں۔ (ا۔ صفت) راستے میں۔
 راہ گیر۔ (ا۔ مذ) راہی۔ راہ رُو۔ مسافر۔
 راہ لگانا۔ (را۔ محاورہ) رہنمائی کرنا۔ ڈھنگ پر لانا۔ اپنے موافق کر لینا۔
 راہ لینا۔ (را۔ محاورہ) (۱) چل دینا۔ راستہ پکڑنا (۲) اپنا کام کرنا (۳)
 پڑے بسر کرنا۔
 راہ مار۔ (ا۔ مذ) راہ زن۔ لٹیرا۔ قزاق۔
 راہ ملنا۔ (را۔ محاورہ) کوئی تدبیر نکل آنا۔ راستہ پانا۔
 راہ میں آنکھیں کھچانا۔ (را۔ محاورہ) پذیرائی کرنا۔ نہایت عجز و تواضع
 سے استقبال کرنا۔
 راہ میں کچھ جانا۔ (را۔ محاورہ) بہت تواضع کرنا۔ بڑی عاجزی سے استقبال کرنا
 راہ میں ٹھوکریں کھانا۔ (را۔ محاورہ) جھٹکنا۔ منزل پر نہ پہنچ سکا۔
 راہ میں حائل ہونا۔ (را۔ محاورہ) راستہ روکنا۔ راستے میں آجانا۔
 راہ میں رہ جانا۔ (را۔ محاورہ) ساتھ چھوڑ دینا۔ تنگ کر دینا۔
 راہ میں کانٹے پھاننا۔ (را۔ محاورہ) رستہ دشوار گزار ہونا (۲) دشمنی یا
 تکلیف کی بات ہونا۔
 راہ میں لینا۔ (را۔ محاورہ) راستے میں اگر بل مانا۔ پیشوائی کرنا۔
 راہ ناپنا۔ (را۔ محاورہ) اگر جلد چلے جانا۔ کھڑے کھڑے آنا (۲) مارے
 مارے پھرنا (۳) بے فائدہ پھرنا۔
 راہ نامہ۔ (ا۔ مذ) مرگوں کا نقشہ یا کتاب۔
 راہ نجات۔ (ا۔ صفت) (۱) انکھی کا طریقہ۔ پھسکار سے کا ڈھنگ (۲) بخشش
 کا ذریعہ۔
 راہ نکالنا۔ (را۔ محاورہ) (۱) راستہ بنانا۔ رشک نکالنا (۲) تدبیر یا تجویز نکالنا
 (۳) وسیلہ پیدا کرنا (۴) رسائی حاصل کرنا۔
 راہ نما۔ (ا۔ مذ) فادی۔ راستہ دکھانے والا۔ رہبر۔
 راہ نمائی۔ (ف۔ ا۔ صفت) ہدایت۔ رہبری۔
 راہ نورد۔ (ف۔ صفت) راستہ چلنے والا۔ تیز چلنے والا (۲) مسافر۔ راہ رُو۔
 راہ نوردی۔ (ف۔ ا۔ صفت) سفر مسافت۔
 راہ دار۔ (ا۔ مذ) (۱) گھوڑا۔ تیز چلنے والا گھوڑا (۲) پتھا گھوڑا۔
 راہ داہونا۔ (را۔ محاورہ) رستہ کھلنا۔
 راہ در لبط (وسم)۔ (ف۔ ا۔ صفت) واقفیت۔ صاحب سلامت
 میل جول۔ آندورفت۔
 راہ ہونا۔ (را۔ محاورہ) (۱) محبت ہونا۔ دوستی ہونا (۲) معاملہ ہونا (۳)
 چلنے کو جگہ ہونا۔ راستہ ہونا۔
 راہیں تانا۔ تدبیریں بتانا۔ شہو سے دینا۔
 راہیب۔ (را۔ صفت) (ج۔ ا۔ مذ) (۱) عیسائی عابد یا زاہد (۲) تارک الدنیا۔
 راہیبہ۔ (را۔ صفت) (ج۔ ا۔ صفت) عیسائی تارک الدنیا عورت۔
 راہین۔ (راہین) (ج۔ ا۔ مذ) رہیں کرنے والا۔ گردی رکھنے والا شخص۔
 راہتا۔ (راہ۔ تا) (ہ۔ صفت) (۱) پگلی کے پاؤں کو لوہے کے اوزار سے کھردرا کرنا۔

رُبَاعِي (رُب - با - عی) [ج - ۱ - مٹ] [دہ چار مصرعے جو اوزان مخصوص پر ہوں اس میں پہلے اور چوتھے مصرعے کا ہم قافیہ ہونا ضروری ہے۔ رُبَاعِي کے چوبیس اوزان ہیں۔
رُبَاعِي ترانہ - دہ رُبَاعِي جس کے چاروں مصرعے ہم قافیہ ہوں۔
رَبَانَا (رَب - بَانَا) [ر - ۱ - ا] [ذ] ایک قسم کا چھوٹا ڈف یا دائرہ جس میں بھانجہ وغیرہ لگے ہوتے ہیں۔

رَبَانِي (رَب - بَانِي) [ج - مٹ] [۱] رب کا - رب کی طرف منسوب (۲) علم الہی جاننے والا۔

رَبِيْط (رَب - يَط) [ذ] تھاب - پوچھ - قصائی۔

رَبِيْط (رَب - يَط) [ذ] [۱] مٹ [۲] محنت - مشقت (۳) تھکاوٹ - ماندگی - (۴) بے فائدہ محنت - لاعاصل دودھ پھوپ۔

رَبِيْط (رَب - يَط) [انگریزی - رِبْرز (Rubber)] کا ہند - ۱۰ [ذ] حرف مٹانے کی چیز جو ایک درخت کا دودھ پکا کر جالیٹے ہیں یہ لچکدار شے کچی ساہی اور پینٹل کے نشانات مٹا دیتی ہے اور سینٹری وغیرہ سینکڑوں اشیاء میں استعمال کی جاتی ہے۔

رَبِيْطِي (رَب - يَطِي) [ذ] [۱] مٹ [۲] رِبْرِي - گاٹھا کیا ہوا دودھ۔

رَبِيْط (رَب - يَط) [ذ] [۱] بندش - لگاؤ - تعلق (۲) میل ملاپ - راہ و رسم -

(۳) نسبت - تناسب - محبت - دوستی (۴) پیار - اخلاص۔

رَبِيْط بڑھانا - (۱) محاورہ، تعلق پیدا کرنا - دوستی بڑھانا - مشق بڑھانا۔

رَبِيْط ضبط - (رَب - يَط) [ذ] [۱] میل ملاپ - آمد و رفت - راہ و رسم۔

رَبِيْط ہونا - (۱) محاورہ، [۱] آشنائی ہونا - دوستی ہونا (۲) عادت ہونا مشق ہونا۔

رَبِيْطِي (رَب - يَطِي) [ر - ۱ - ا] [مٹ] [۱] جوڑ - تعلق (مرکبات میں استعمال ہوتا ہے جیسے بے ربطی)۔

رَبِيْع (رَب - ع) [ص - ۱ - و] [ذ] چوتھا چہارم - چہار یک۔

رَبِيْع دائرہ (۱) [شکل] جو قوس اور ان دونوں نصف قطروں سے محدود ہو جو ایک دوسرے کو زاویہ قائم بنا کر کاٹتے ہوں (۲) کوئی چیز خصوصاً دھات کا ڈھلوان ٹکڑا جس کی شکل ربع دائرہ کی سی ہو۔

رَبِيْع مسکون - (رَب - ع) [ذ] دنیا کا چوتھا حصہ جو خشکی پر ہے اور آباد خیال کیا جاتا ہے۔

رَبِيْقہ (رَب - ع) [ذ] [۱] طوق۔

رَبِيْن (Ribbon) [ر - بِن] [انگ - ۱ - ا] [ذ] ریفٹہ - پتی بسی پٹی - دھجی۔

رَبُوْبِيْت (رَب - يُوْبِي) [یت] [ج - ۱ - مٹ] [۲] پروردگاری۔

رَبُوْدِيْگی (رَب - يُوْدِيْگی) [ذ] [۱] مٹ [۲] غنودگی یا خلقت جو بیمار کو ہوتی ہے (۳) کوٹ کھسوٹ۔

رَبُوْدہ (رَب - و) [ذ] [۱] [ذ] [۱] تودہ - اونچی زمین - ٹیلا (۲) مراد [۱] بیت المقدس (۳) ضلع جھنگ (پنجاب) میں مزایوں کا بسا یا چھوٹا شہر۔

رَبِيْب (رَب - يَب) [ذ] [۱] [ذ] [۱] سوتیلا بیٹا - بیوی کا بیٹا کھلے خاندان سے۔

رَبِيْبہ (رَب - يَبِي) [ذ] [۱] [مٹ] [۲] سوتیلی بیٹی - بیوی کی بیٹی۔

رَبِيْبِيْع (رَب - يَبِيْع) [ذ] [۱] [مٹ] [۲] سومبر بہار (۳) ساڑھی - وہ فصل جو

رائی کا پہاڑ (پرست) بنانا - (۱) محاورہ، بات کا بنگلہ بنانا - چھوٹی سی بات کو بہت بڑھا دینا۔

رائِي كَانِي (رَب - مٹ) ریزہ ریزہ - چوڑا چوڑا - گلا ہوا۔

رائِي نُون تِرے دیدوں میں - (۱) [مٹ] [۲] چشم بد دور - جب کوئی کسی کی تعریف کرے تو اسے نظر بد سے بچانے کے لیے کہتے ہیں۔

رَاْسِي (رَب - اَسِي) [ج - ۱ - مٹ] [۱] تجویز (۲) دانائی عقل (۳) خیال - (۴) مشورہ (۵) قیاس۔

رَاْسِي دہندہ - (رَب - ف - مٹ) رائے دینے والا دوڑ - دوڑ دینے والا۔

رَاْسِي دہی - (رَب - ف - مٹ) رائے دینے کا فعل۔

رَاْسِي دینا - (۱) محاورہ، صلاح دینا - مشورہ دینا - تجویز بتانا۔

رَاْسِي زَنِي - (رَب - ف - مٹ) کسی امر کے بارے میں اظہار رائے۔

رَاْسِي عامہ - (رَب - ف - مٹ) پبلک کی رائے - عوام کا خیال - جماعت کی صلاح۔

رَاْسِي (رَب - اَسِي) [ذ] [۱] راؤ (۲) راجا (۳) شہزادہ (۴) سردار (۵) ایک سرکاری خطاب۔

رَاْسِي بیل - (رَب - مٹ) ایک قسم کی جنیبل کے پھول اور اس کی بیل۔

رَاْسِي جامن - (رَب - مٹ) بڑی اور موٹی جامن۔

رَاْسِي رَايَان (رَب - اَسِي) [ذ] [۱] مٹ [۲] راجا دھیراج - شہنشاہ

رَاْسِي رَايَال رَاْسِي کھن چکر - اُدھی روٹی ڈیڑھ پاؤ شکر - (مٹ) [۱] بادجو دستہ والے ہونے کے متعلق (۲) بے سبب کام۔

رَاْسِي مِينَا کی چوڑیاں - (رَب - مٹ) ایک قسم کی عمدہ چوڑیاں۔

رَايْت (رَب - يَت) [ذ] [۱] [ذ] جھنڈا - علم - جمع : رَايَات۔

رَب

رَب (رَب - ع) [ص - ۱] [۱] پالنے والا - پروردگار (۲) مالک - صاحب (۳) خدا کے تعالیٰ - جمع : ارباب۔

رَبُّ الْاَرْبَاب - (رَب - ع) [ص - ۱] [۱] تمام پالنے والوں کا پالنے والا۔

رَبُّ الْعَالَمِيْنَ - (رَب - ع) [ص - ۱] [۱] جہانوں کا پالنے والا - کل عالم کا پروردگار

رَبُّ يَسْرُوْتَم بِالْخَمِيْر - (رَب - ع) [ص - ۱] [۱] اسے رب آسان اور آجی طرح انجام دے کتاب شروع کرتے وقت پڑھ کر پڑھائی جاتی ہے۔

رُب (رَب - ع) [ذ] [۱] [ذ] [۱] پکارا گاٹھا کیا جو اشریت جو جمایا جائے۔

رَبَا - رَلُو - (رَب - يَرُو) [ذ] [۱] [ذ] [۱] سود - بیاج۔

رَبَا (رَب - يَرُو) [ذ] [ص - ۱] [۱] چھیننے والا (مرکبات میں استعمال ہوتا ہے جیسے دل ربا۔

رَبَاب (رَب - يَاب) [ذ] [۱] [ذ] [۱] ایک قسم کی سادگی رخاڑی میں بالعم ہے۔

رَبَانِي (رَب - يَانِي) [ذ] [ص - ۱] [۱] [ذ] [۱] رباب بجانے والا۔

رَبَاظ (رَب - يَاظ) [ذ] [۱] [ذ] [۱] مسافر خانہ۔

اکتوبر اور نومبر میں ہوئی اور مارچ اور مئی میں کاٹی جاتی ہے۔
ربیع الآخر - ربیع الثانی - (ع - ۱ - مذ) عربی سال کا چوتھا مہینہ۔
ربیع الأول - (ع - ۱ - مذ) عربی سال کا تیسرا مہینہ۔

ر ب پ

رَب - (۱ - ۵ - مٹ) [(۱) تیز چلنے میں پاؤں کی آواز (۲) قہقہے سے کسی شے کے کاٹنے کی آواز۔

رَبَا - (ق - ۱ - مٹ) [چاندی۔

رِبْط - (ر - پٹ) [(۱ - ۵ - مٹ) [(۱) پھسلن - پھسلنا (۲) انگریزی لفظ رپورٹ (Report) کا بگاڑ - خبر - اطلاع - کسی جرم یا وقوعہ کی خبر جو پولیس کو دی جائے۔

رِبْط - (Rivot) [(۱ - ۵ - مٹ) [کپس یا ٹوپی جس کی بلا ٹوپی والی سمت کو پیٹ کر چوڑا کر دیا جائے۔

رِبْطَانَا - (رَب - ٹا - نا) [(۵ - مص) [پھسلانا - دوڑانا۔

رِبْطَانَا - (رَب - پٹ - نا) [(۵ - مص) [پھسلنا - ٹھسکانا - ٹھسکانا۔

رِبْط - (رَب - ۱ - ۵ - مٹ) [ڈنگلی چال۔

رِبْطِي - (رَب - پل - لی) [(۵ - ۱ - ۵ - مٹ) [روپے کی تصنیف بالتحقیق۔
رپورٹاژ - (۱ - مذ) کسی واقعہ کو دلچسپ اور انسانی انداز میں لکھنا (انگ) (Reportage) کا مترادف۔

رپورٹ - (Report) (رَب - پورٹ) [(انگ - ۱ - مٹ) [(۱) باضابطہ بیان - رُوداد (۲) اطلاع - خبر - رپورٹ (۳) اخباری بیان۔

رپورٹر - (Reporter) (رَب - پور - ٹر) [(انگ - ۱ - مذ) [اطلاع دینے والا - خبر نگار - نامہ نگار (اخبار کا)۔

رُپْہیلی - (رُپْہی - لی) [(۵ - صفت) [دیکھے روپھی۔

رُپْہیہ - (رُپْہی - یہ) [(۵ - ۱ - مذ) [دیکھے روپھیہ۔

ر ت

رَت - (رہ - مٹ) [(۱) خوش - مسرور (۲) رات کا مختلف - درمکبات میں استعمال ہوتا ہے۔

رَت جگایا - شب بیداری - خوشی یا عبادت میں رات بھر جاگنا۔
(۲) ایک قسم کی خوشی کی نیاز جو عورتیں دلاتی ہیں (۳) ہندوؤں کی ایک عبادت جو رات بھر جائے اور کھتا کے ذریعے سے کی جاتی ہے۔

رَت - (۱ - ۵ - مٹ) [(۱) موسم - سال - زمانہ - فصل (۲) عورت کے ماہرہری ایام (۳) جانوروں کی جنسی کاموسم۔
رَت آنا - (۱ - ۵ - مٹ) [(۱) ماہرہری موسم - ۱۲ - بہار آنا - زمانہ آنا۔

رَت بدلنا - پھرنا - (۱ - ۵ - مٹ) [موسم کا تبدیل ہونا۔

رَت کڑی ہونا - موسم خراب ہونا۔

رَتا - (رَتا - ۱ - ۵ - مذ) [ایک قسم کا کھڑا جو گہوؤں وغیرہ کو گھسانا ہے۔

رَتاؤ - (رَتاؤ - ۱ - ۵ - مذ) [اردو کی مانند ایک قسم کی بڑ۔

رَتاؤ - (رَتاؤ - ۱ - ۵ - مذ) [حملہ۔

رَتاؤی - (رَتاؤی - ۱ - ۵ - مٹ) [رہنے کی اجرت۔

رَتبہ - (رَتبہ - ۱ - ۵ - مذ) [(۱) مہندہ - درجہ - مرتبہ (۲) عزت بڑھت

(۳) قدر - منزلت - پایہ۔

رَتبہ بڑھانا - (۱ - ۵ - مٹ) [ترقی دینا - درجہ زیادہ کرنا۔

رَتبہ پانا - (۱ - ۵ - مٹ) [عزت حاصل کرنا - مرتبہ حاصل کرنا۔

رَتبہ دار - (رَتبہ - ۱ - ۵ - مٹ) [مرتبہ والا - صاحب حیثیت - ممتاز۔

رَتبہ دار - (۱ - ۵ - مٹ) [مرتبہ والا - صاحب حیثیت - ممتاز۔

رَتق و تَق - (رَتق - ۱ - ۵ - مذ) [باندھنا اور کھولنا - بست و کشادہ - انتظام۔

رَتق - (رَتق - ۱ - ۵ - مذ) [(۱) جواہرات - قیمتی پتھر - نگ (۲) آنکھ کی پتلی (۳) منی - دھات - لطف (۴) عطر - مست - چوڑ - خلاصہ - مٹ لباب (۵) جوہن۔

رَتق پاک - اعلیٰ جواہر۔

رَتق چوت - (۱ - ۵ - مذ) [ایک پودا جس کے پتے پاکڑی تیل میں ڈالنے سے تیل سرخ ہو جاتا ہے (۲) آنکھوں کی ایک دوا۔

رَتق دیب - (۱ - ۵ - مذ) [پزیرا جس میں جواہرات بڑے ہوں اور روشنی دیتے ہوں۔

رَتق ماللا - (۱ - ۵ - مٹ) [(۱) ہیروں کا لار (۲) ایک قسم کا پھول - علم نجوم پر ایک کتاب کا نام۔

رَتنا - (رَتنا - ۱ - ۵ - مٹ) [(۱) ریتی سے رگڑا جانا (۲) خالی ہونا۔

(۳) سادھی بچنا۔

رَتناؤلی - (رَتناؤلی - ۱ - ۵ - مٹ) [مرصع ہار - ہیروں کا لار۔

رَتقیال - (رَتقیال - ۱ - ۵ - مذ) [ایک قسم کا حوالہ۔

رَتوا - (رَتوا - ۱ - ۵ - مذ) [ایک سرخ پتھر جو بچوں کو بخسار وغیرہ سے بچانے کے لیے گلے میں لٹکاتے ہیں (۲) ایک قسم کا سرخ کھڑا۔

رَتوانا - (رَتوا - ۱ - ۵ - مذ) [(۱) صاف کرنا - کسی سخت چیز کو خوار دار آہنی اوزار سے چھلوانا۔

رَتواہی - (رَتواہی - ۱ - ۵ - مذ) [(۱) رات کا حملہ (۲) رات کو آنے والی بہیلی۔

رَتوندھا - (رَتوندھا - ۱ - ۵ - مذ) [شب کو رہی - آنکھ کی ایک بیماری جس کے سبب رات کو دکھائی نہیں دیتا۔

رَتوندھیا - (رَتوندھیا - ۱ - ۵ - مذ) [(۱) رتوندھے کا مرین - شب کو رہی - آنکھ کی ایک قسم کی بیماری جس کے اوپر بڑھی

رَتوندھیا - (رَتوندھیا - ۱ - ۵ - مذ) [(۱) رتوندھے کا مرین - شب کو رہی - آنکھ کی ایک قسم کی بیماری جس کے اوپر بڑھی

رَتوندھیا - (رَتوندھیا - ۱ - ۵ - مذ) [(۱) رتوندھے کا مرین - شب کو رہی - آنکھ کی ایک قسم کی بیماری جس کے اوپر بڑھی

رَتوندھیا - (رَتوندھیا - ۱ - ۵ - مذ) [(۱) رتوندھے کا مرین - شب کو رہی - آنکھ کی ایک قسم کی بیماری جس کے اوپر بڑھی

رَتوندھیا - (رَتوندھیا - ۱ - ۵ - مذ) [(۱) رتوندھے کا مرین - شب کو رہی - آنکھ کی ایک قسم کی بیماری جس کے اوپر بڑھی

ر - ج

رُج - (دھ۔ ۱۔ مٹ) (۱) دریا کا ریتا (۲) بالو۔ ریت۔ ریگ (۳) حیض۔ ایام (۴) ڈکڑا (۵) پھولوں کا ترہہ۔

رُجا - (دھ۔ صفت) (۱) سیر۔ پیٹ بھرا (۲) دولت مند۔ مال دار۔

رُجا پُجا - (دھ۔ صفت) (۱) رجا ہوا (۲) بھرا پُرا (۳) آباد (۴) دولت مند۔ دھنی۔

رُجا کیا جانے بھوکے کی سار۔ (دش) پیٹ بھرے کو بھوکے کی تکلیف کا احساس نہیں ہوتا۔

رُجا - (دھ۔ ۱۔ مٹ) اُمید۔ آس۔ آسرا۔ آرزو۔ تمنا۔ خواہش۔

رُجا ل - (دھ۔ حال) (دھ۔ ۱۔ مذ) رُجُل کی جمع۔ لوگ۔ بہت سے مرد۔

رُجا ل الغیب - (دھ۔ ۱۔ مذ) مردانِ غیب۔ داسول۔ ایک عیبی ہستی جو زمین کے گرد پھرتی ہے۔

رُجا ل - (دھ۔ ۱۔ ص) (دھ۔ ۱۔ ص) پُر اُمید۔ تصویر کا روشن پہلو دیکھنے والا۔ (انگ) (Optimist)

رُجا لیت - (دھ۔ ۱۔ ص) (دھ۔ ۱۔ مٹ) (۱) اچھے خیال رکھنا۔ تصویر کا روشن پہلو دیکھنا (۲) آرزو سے پُر ہونا۔ (Optimism)

رُج ب - (دھ۔ ۱۔ ص) (دھ۔ ۱۔ مذ) قری سال کا ستواں مہینہ۔

رُج حان - (رُج۔ حال) (دھ۔ ۱۔ مذ) میلان۔ توجہ۔

رُج حانات - (رُج۔ حال) (دھ۔ ۱۔ مذ) رُج حان کی جمع۔

رُج حہ - (دھ۔ ۱۔ ص) (دھ۔ ۱۔ مٹ) (۱) جنگ میں پڑھنے کے اشعار (۲) وہ فخریہ اشعار جس میں سپاہی کی بہادری کی تعریف ہوتی ہے اور میدانِ جنگ میں پڑھے جاتے ہیں۔

رُجس - (دھ۔ ۱۔ مذ) پلیدی۔ گندگی۔

رُجسٹر - (Register) (رُجس۔ مٹ) (انگ۔ ۱۔ مذ) یادداشت کی کتاب۔ حاضر کی کتاب۔ دفتر کی کتاب۔

رُجسٹرار - (Registrar) (رُجس۔ مٹ۔ وار) (انگ۔ ۱۔ مذ) (۱) رجسٹر میں درج کرنے والا (۲) رجسٹری کرنے والا (۳) محافظ دفتر۔

رُجسٹرد (Registered) (رُجس۔ مٹ) رجسٹری کیا گیا۔ رجسٹر میں درج وہ چیز جس کی قانون کے مطابق رجسٹری ہوئی ہو۔

رُجسٹری - (رُجس۔ مٹ۔ ری) (انگ۔ رجسٹریشن) (Registration)

(۱۔ مٹ) (۱) ڈاک کے دفتر میں زادِ محصول دے کر خط و فیروزہ درج کرانا اور رسید لینا (۲) داخلہ۔ اندراج۔ فہرست۔ رجسٹری شدہ۔ دیکھیے رجسٹرد۔

رُجعت - (رُج۔ عت) (دھ۔ ۱۔ مٹ) (۱) واپسی۔ عود۔ بازگشت۔ ۱۔ عاہدہ (۲) عورت کو طلاق دینے کے بعد پھر اپنی زوجیت میں لانا (۳) چاند اور سورج کے سوا کسی اور سیارے کا اپنی معمولی گردش سے پھرنا (۴) اُڑ۔ چند۔ ہٹ۔

رُجعت ہرقمری - (دھ۔ ۱۔ مٹ) اُسے پاؤں واپس ہونا۔ سابقہ حالت

رسی بنی ہوتی ہے۔ دیوتاؤں کی ایک قسم کی عمدہ گاڑی کی سواری (۲) تلہ۔ کوٹ۔ حصار۔

رقتہ بان۔ رقتہ دان۔ (دھ۔ صفت) گاڑی بان۔ رتھ بانکنے والا۔

رقتہ یا ترا۔ (دھ۔ ۱۔ مٹ) (۱) گاڑیوں کی دھوم دھام جو کسی دیوتا کی سواری میں ہو (۲) ہندوؤں کا ایک میلہ جو دوسری اسٹھ کو لیکن ناٹھ جی کے نام سے ہو کرتا ہے۔

رُتی - (رت۔ تی) (دھ۔ ۱۔ مٹ) (۱) بھاگ۔ نصیب۔ قسمت۔ تقدیر (۲) گھونچی پھرتی۔ ایک وزن جو آٹھ چاول کے برابر ہوتا ہے۔ ماشے کا آٹھواں حصہ (۳) مقدار قلیل۔ ذرہ۔

رُتی بھر - (۱) ذرا سا۔ قدر سے۔ قلیل۔

رُتی بھر دھن ساتھ نہ جاوے۔ جب تو مر کر جیو گنوا دے (ایش) برتنے کے وقت ذرا سی دولت بھی ساتھ نہیں جاتی۔

رُتی بھر کی مین چپانی۔ کھانے والے سات سنگھاتی (ایش) انتظام متوڑا اور بھان بہنت۔

رُتی بھر ناتا گاڑی بھر آشنائی۔ (دش) متوڑا رشتہ بہت سی دوستی سے اچھا ہوتا ہے۔

رُتی جاگنا۔ رُتی چمکنا۔ (۱) محاورہ) نصیبہ جاگنا۔ اقبال یا در ہونا۔ قسمت کھلنا۔ پھلنا۔ پھولنا۔

رُتی دان نہ دھی کو دیا۔ دیکھو رسی سمکھن کا بتیا۔ (دش) جب چیز متوڑا ہو تو عورتیں بہتی ہیں۔

رُتی دے کر مانگے تولہ۔ واکو کون بتاوے بھولا (ایش) جو متوڑا دے کر بہت لے اسے کون بے وقوف کہہ سکتا ہے۔

رُتی رُتی - (۱) ذرا ذرا۔ ایک ایک تجبہ بالکل۔ تمام۔ سراسر۔ سرتاپا۔ رتیوں جوڑے تولوں کھووے۔ واکو لہجہ کہاں سے ہووے۔

(دش) فضول خرچ آدمی کو کبھی فائدہ نہیں ہوتا۔

رُتیللا - (ر۔ تی۔ لا) (دھ۔ صفت) ریت ملا ہوا۔

رُتیلی - (ر۔ تی۔ لی) (دھ۔ صفت) ریتلا کی تاثیرت۔

ر - ٹ

رُٹ - (دھ۔ ۱۔ مٹ) تکرار۔ ہر وقت ایک ہی بات کیے جانا۔ تکرارِ مضملی۔

رُٹ لگنا۔ (۱) محاورہ) کسی کام کا بار بار نام لینا۔ اصرار کرنا۔ ایک بات کو بار بار کہنا۔

رُٹ - (Writ) (انگ۔ ۱۔ مٹ) عدالت کا حکم نامہ۔ اجرائے پروانہ کی درخواست جو مانی کوٹ میں دائر کی جاتی ہے۔

رُٹرننگ آفیسر - (Returning Officer) (ر۔ ٹ۔ ننگ۔ آ۔ ف۔ س) (انگ۔ ۱۔ مذ) ناظم انتخابات۔

رُٹیا۔ (رٹ۔ نا) (دھ۔ صفت) چھٹا۔ بار بار کہنا۔ کسی چیز کو زبانی یاد کرنا۔ روتیا۔ (دھ۔ ۱۔ مٹ) (دھ۔ ۱۔ مٹ) (۱) رٹنے والا۔ رٹ کرنا۔ رٹنے والا۔

کی طرف لڑنا۔

رجل - رزہ بل، رج ۱- مذاکری۔ مرد۔ جمع : رجال۔

رجلے بجلے - رج ۱- بے۔ رزہ - بے، لے، اور۔ صفت) کہنے۔ رزیل۔

رجم - رج ۱- مذ [۱) پتھر مارا کر ہلاک کرنا۔ سنگ ساری (۲) شباب
التاقب - جمع : رجوم۔رجماً بالینیب - رج - من - پل - غیب (ع - تابع فعل) بغیر سو پے
بھیجے - اٹکل سے۔

رُج مان - رج ۱- مٹ [شرم دیا۔ خوداری۔

رجمنٹ - (Regiment) رج - منٹ [دانگ - ا۔ مٹ [پیدل سپاہیوں

کا دستہ۔ پلیں۔ رجمنٹ میں عام طور پر آٹھ سو سے ایک ہزار تک سپاہی ہوتے ہیں
رجنا - رج - نا (۱) مس (۲) سیر جونا۔ پیٹھ بھرنا۔

رجینی - رج - نی (۱) مٹ [۱) سیاہ رنگ کی چیز (۲) رات (۳)

املی (۲) نیل کا پودا (۵) لاکھ (۶) ڈرگاجی (۷) ایک اسپر (۸)

ایک دریا۔

رجو - رج - جو (۱) مٹ [۱) رستی - دھاگا - ڈور (۲) گانٹھ

(۳) میندھی۔

رجواڑہ - رج - وار (ہ) - ھ [مذ] راجا کا ملک - راجہ کی مملداری۔

رُجورج - رج (۲) رج (۱) - اند مٹ [۱) واپس ہونا۔ مڑنا۔ لوٹنا۔ حاصل

ہونا۔ راجب ہونا (۲) رغبت - میل میلان (۳) ظاہر ہونا۔ حاضر

ہونا (۴) التما۔ نظر ثانی۔ گزارش یا اپیل عدالت میں (۵) توڑتہ۔

رُجورج کرنا - رج - ص - مٹ [۱) مڑنا۔ پٹ جانا (۲) معالجہ کرنے کے لیے

حکیم کے پاس جانا (۳) مخاطب ہونا (۴) کسی طرف متوجہ ہونا (۵)

عدالت میں دعویٰ کرنا۔

رُجورج ہونا - ماہل ہونا۔ متوجہ ہونا۔ پیش ہونا۔

رُجولت - رُجولیت - رُج - جو۔ لت (رُجولی - یت) (ع - ۱- مٹ)

مردمی - باہ - قوت تولید۔

رُجوم - رُج - جم (ع - ۱- مذ) رُجم کی جمع - شباب، ثاقب - وہ ستارے

جن سے شیطان بھگانے جاتے ہیں۔

رُجھانا - ر - جھانا (ھ - مص) [۱) مائل کرنا۔ فریضہ کرنا۔ بھگانا (۲) خوش

کرنا۔ مسرور کرنا۔

رُجھنا - رُجھ - نا (ھ - مص) [۱) ڈکنا۔ بھرنا۔ بند ہونا (۲) مشغول ہونا۔

تنگ ہونا۔ گھبرانا۔ ستایا یا چھیڑا جانا۔

رُجیم - رُجیم - رج - صف (۱) مردود۔ ہنکا یا ہوا (۲) پتھر مارا ہوا۔

رَجاڈ - ۱- ھ - ۱- مذ) بپٹنے کا عمل۔

رَجاوٹ - ۱- مٹ [رنگت کی خوشی۔ اچھا رنگ۔

رَچنا - رج - نا (ہ - مص) [۱) سرایت کرنا۔ اثر ہونا (۲) ہندی کاری

لانا۔ (۳) شروع ہونا۔ پھیلنا۔ سامان بیٹا کرنا شادی کا (۴) جزو بدن

ہونا (۵) بوٹر کا فٹانے میں جانا (۶) کھانا ہضم ہونا (۷) بنا (مرتب

ہونا) (۸) ایجاد ہونا (۹) کام پر لگانا (۱۰) استعمال ہونا (۱۱) متعلق ہونا

(۱۲) واقف ہونا۔ مانوس ہونا (۱۳) گانے میں نسج جانا (۱۴) قیمت میں

ہونا (۱۵) محبت کرنا (مٹ) (۱۶) فطرت (۱۷) شکل - صورت۔ بناؤ

(۱۸) نظم - گیت۔

رَچنا پچنا - ۱- مٹ (مٹ) خوشگوار۔ جزو بدن ہونے والا۔

رَچنا - رج - نا (ہ - مص) [پسند ہونا۔ اچھا لگنا (۲) خواہش ہونا۔ میلان ہونا

رَچنی ہندی - رج - نی - ہند - دی (۱- ھ - مٹ) [رنگ دار ہندی۔ ھ

ہندی جو رنگ اچھا دے۔

رَچھا - رَچھا - ھ - ھ - ھ - مٹ [۱) محافظت - پناہ -

(۲) مدد۔ سرپرستی - حمایت (۳) امن - چین - آرام۔ صل - (۴)

مہربانی - عنایت۔

ر - ج

رُج - رج - ھ - ھ - مٹ [۱) مسکن۔ منزل (۲) اسباب (۳) کوچ۔

رجل - رج - ۱- مٹ [کھڑکی چیز جس پر قرآن شریف رکھ کر پڑھتے ہیں۔

رجلکٹ - رج - لکت (ع - ۱- مٹ [۱) کوچ۔ دو انگلی (۲) موت - انتقال۔

رجم - رج - ۱- مذ [۱) کرم۔ مہربانی۔ دیا (۲) بخشش۔ عنو (۳) ترس۔ درد مندی

ہمدردی (۴) ڈر [۱) چادوں کا کچھ علوہ جو خاص اللہ میاں کی نیاز کے

لیے کسی خوشی کی تقریب یا ایسا ہتیا بنایا جاتا ہے۔

رحم دل - رج - ف - ۱- مٹ [۱) مہربان۔ ہمدرد۔ رقیق القلب۔

رحم دلی - رج - ف - ۱- مٹ [مہربانی۔ درد مندی۔ ہمدردی۔

رحم کرنا - ۱- محاورہ [۱) ترس کھانا (۲) ڈر [گھٹکے پکا کر مسجد کا حلق بھرنا۔

رحم کھانا - ۱- محاورہ [ترس کھانا۔ خوف خدا کرنا۔

رحم - رج - ۱- مذ [بچہ دان۔ گرہبہ - جمع : ارحام۔

رحمان (رحمن) - رج - صف [۱) مہربانی کرنے والا۔ شفیق - رحیم - غفور۔

(۲) خدا تعالیٰ کا اسم صفاتی۔

رحمت برج - مٹ - رج - ۱- مٹ [۱) کرم۔ مہربانی (۲) ڈر [بارش۔

رجز (۳) درد و سلام۔ صلوة (۴) کلمہ تحسین واخیر میں۔ شاہش۔

رحمۃ اللہ علیہ - رج - کلمہ دعا اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو۔ مرحوم

بزرگان دین کے نام کے ساتھ لکھا جاتا ہے۔ جمع کی صورت علیہم

یعنی دو کی صورت علیہما اور تائید میں علیہا۔

رحمت حق پہناتہ می جوید (نیل) خدا کی رحمت پہناتہ تلاش کرتی ہے۔

ر - ج

رُج - ھ - ۱- مٹ [۱) رغبت۔ چاہ۔ خواہش (۲) بھوک۔ اشتہا۔

رَچانا - رج - جانا (ھ - مص) [۱) مغز کرنا۔ شروع کرنا۔ پھیلانا (۲) خوشی

مانا (۳) ہندی سے ڈاٹھ رنگنا (۴) معطر کرنا۔ بسانا۔

رحمتِ خدا کی۔ لکنہ تمہیں آفریں ہے شاہش۔ آپ کا کیا کہنا۔
 رَحْمَتِ (ر-ج-ج) (ر-ج-ج) (م-ث) [خالص شراب۔
 رَحْمَتِ (ر-ج-ج) (ر-ج-ج) (م-ث) کوکھ کرنا۔ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا۔
 رَحْمَتِ (ر-ج-ج) (ر-ج-ج) (م-ث) [معصا مہربانی فرمانے والا۔ مہربان (۲)، (م-ث) [م-ث]
 خدا کا ایک معنائی نام۔

رَحْمَتِ اِتِّفَاتِ (ر-ج-ج-ا-م-ث) غیر سفرہ رَحْمَتِ۔ ہنگامی رَحْمَتِ۔
 رَحْمَتِ اِسْتِحْقَاتِ (ر-ج-ج-ا-م-ث) وہ چینی جس کا حق ہو۔
 رَحْمَتِ دینا۔ (ا-م-ث) (م-ث) [م-ث] اجازت دینا۔ چینی دینا۔
 رَحْمَتِ طَلَبِ (ر-ج-ج-ف-ص-غ) جانے کی اجازت پہننا۔ چینی مانگنا۔
 رَحْمَتِ کرنا۔ (ا-م-ث) اجازت دینا (۲) روانہ کرنا۔ چینی (۳) سوتل کرنا (۴) ماننا
 رَحْمَتِ لینا۔ (ا-م-ث) (م-ث) اجازت لینا۔ چینی لینا۔

رَحْمَتِ تَانِہ (ر-خ-ج-ص-ت-ن-ذ) (ا-م-ث) وہ نقدی جو پتلے وقت کسی رئیس
 کے دربار سے عطا ہو۔ انعام رَحْمَتِ۔

ر-خ

رُخ (ذ-ا-م-ث) (۱) دُشوار مَنہ۔ گال (۲) طرف۔ جانب۔ سمت (۳)
 ایک فرسی جانور جو بہت بڑا ہوتا ہے اور جس کا ذکر الف یلہ
 میں آتا ہے۔ سیرخ (۴) ایک تاج جو شاہان ایران پہنا کرتے
 تھے (۵) اُڑانے والا۔ حاشیہ۔ اُٹن (۶) شطرنج کا ایک مہر (۷)
 توجہ اللغات۔ رحمان (۸) سامنا۔ آگ۔
 رُخ بدلنا۔ رُخ پھیرنا۔ (ا-م-ث) (م-ث) (۱) مَنہ نہ لگانا۔ کم توجہی کرنا (۲)
 سمت بدلنا (۳) دوسری طرف ہو جانا (۴) دکھائی کرنا۔
 رُخ دے کر بات نہ کرنا۔ (ا-م-ث) (م-ث) توجہ سے بات نہ کرنا۔ بدل
 دے کر نہ بولنا۔ خاطر میں نہ لانا۔
 رُخ دیکھنا۔ (ا-م-ث) (م-ث) توجہ دیکھنا۔
 رُخ زرد ہو جانا۔ (ا-م-ث) (م-ث) دُرجانا۔ خوف کھانا۔
 رُخ کرنا۔ (ا-م-ث) (م-ث) (۱) مَنہ کرنا (۲) توجہ کرنا (۳) پھیرنا۔ لوشنا۔

رُخستہ۔ (ر-خ-ج-ص-ت-ن-ذ) (ا-م-ث) (۱) دواغ۔ دُلہن کی روانگی (۲) وہ
 رویہ جو دواغ ہوتے وقت دیا جائے۔ سلامی (۳) [صغ] چھٹی پر۔
 رُخستہ۔ (ر-خ-ج-ص-ت-ن-ذ) (ا-م-ث) (۱) چھید۔ سُوداخ (۲) رولن۔ شگاف۔
 دریچہ بکھر کی (۳) بڑی کٹوٹا (۴) تلوار کا نشان (۵) نقص۔ عیب (۶)
 نقرہ۔ شاد (۷) غل۔ مزاحمت۔
 رُخستہ انداز۔ (ف-ص-غ) مزاحمت کرنے والا۔ بھانجی مارنے والا۔
 رُخستہ اندازی۔ (ف-ص-غ) مزاحمت۔ حق۔
 رُخستہ پڑنا۔ (ا-م-ث) (م-ث) غل پڑنا۔ بھگڑا پڑنا۔ عیب نکلنا۔
 رُخستہ ڈالنا۔ (ا-م-ث) (م-ث) غل پیدا کرنا۔ رولنا۔ ٹکانا۔ بھانجی مارنا۔
 رُخستہ (رُخستہ) نکالنا۔ (ا-م-ث) (م-ث) نقص نکلنا۔ عیب نکلنا۔
 (۲) نکلتے چینی کرنا (۳) جیلہ حوالا کرنا۔ مُذر کرنا۔

ر-د

رُخام۔ (ر-خ-ج-ص-ت-ن-ذ) (ا-م-ث) سنگ مَرز۔
 رُخت۔ (ذ-ا-م-ث) (۱) اسباب۔ اٹاش (۲) لباس۔ پوشاک جاس (۳)
 لائزر۔ ساز و سامان (۴) [ا-م-ث] جوتی کا چمڑا (۵) ٹھٹ۔ د-ج۔
 ہیئت۔
 رُختِ سفر باندھنا۔ (ا-م-ث) (م-ث) سفر کی تیاری کرنا۔ مرنے کی تیاری کرنا۔
 رُختِ سلامی۔ (ذ-ا-م-ث) (۱) درباری لباس۔
 رُختِ عدس۔ (ذ-ا-م-ث) (۱) م-ث) جہیز۔
 رُختِ عریانی پھاڑنا۔ (ا-م-ث) (م-ث) بدن کو زخمی کرنا۔
 رُختِ ہستی۔ (ف-ص-غ) [م-ث] عقل۔ سمجھ۔
 رُخسار۔ (ر-خ-ج-ص-ت-ن-ذ) (ا-م-ث) (۱) گال۔ عذار۔
 رُخسارہ۔ (ر-خ-ج-ص-ت-ن-ذ) (۱) م-ث) [م-ث] رُخسار کا بالائی حصہ۔
 رُخش۔ (ذ-ا-م-ث) (۱) گھوڑا (۲) رستم کا گھوڑا (۳) مَشرخ اور سینہ طلا ہوا
 رنگ (۴) کرن (۵) چمک۔
 رُخشال۔ (ر-خ-ج-ص-ت-ن-ذ) (۱) چمکنے والا۔ چمکیلا۔ منور۔
 رُخشندگی۔ (ر-خ-ج-ص-ت-ن-ذ) (۱) [م-ث] چمک۔ درخشانی۔
 رُخشندہ۔ (ر-خ-ج-ص-ت-ن-ذ) (۱) [م-ث] چمکیلا۔ روشن۔
 رُخصت۔ (ر-خ-ج-ص-ت-ن-ذ) (۱) [م-ث] (ا) اجازت۔ منظوری۔ رضنا۔
 (۲) [ا-م-ث] (۱) کوچ۔ چلنا۔ جانا (۳) دواغ۔ بنازہ اُٹھنے کا وقت۔
 (۴) دفعہ۔ جہلت۔ فرست (۵) جائیں جہ اجازت ہے؟

رَد۔ (ذ-ا-م-ث) (۱) واپس کرنا۔ موٹوٹا۔ پھیرنا (۲) انکار۔ تردید۔ دلیل توڑنا۔
 (۳) [ا-م-ث] ا-ٹی۔

رَدِ بِلَا۔ (ذ-ا-م-ث) (۱) مصیبت کا دُور ہونا۔

رَدِ جَبوت۔ (ذ-ا-م-ث) (۱) جَبوت کو توڑنا۔

رَدِ حَلَق۔ (ذ-ا-م-ث) (۱) مردود۔

رَدِ دَعْوَت۔ دعوت نام منظور کرنا۔

رَدِ سَلَام۔ (ذ-ا-م-ث) (۱) سلام کا جواب۔

رَدِ عَمَل۔ (ذ-ا-م-ث) (۱) جوابی عمل۔ تاثیر نہ ہونا۔ اُلٹ کر اُڑنا۔

رَد کرنا۔ (ا-م-ث) (۱) واپس کرنا۔ پھیرنا (۲) تردید کرنا۔ اعتراض اُٹھانا۔

(۳) ترک کرنا۔ نام منظور کرنا (۴) اُٹے کرنا۔ اُلٹی کرنا۔

رَد و بدل۔ (ذ-ا-م-ث) (۱) اُلٹ پلٹ (۲) ہنگام (۳) واپس کرنا (۴)

بدلنا (۵) دینے کرنا (۶) تبدیلی (۷) لڑائی میں حملہ اور اس کا توڑ۔

رَد و قدح۔ رَد و کد۔ (ذ-ا-م-ث) (۱) م-ث) [م-ث] بخت۔ ہنگام۔

رَد ہونا۔ (ا-م-ث) (م-ث) [م-ث] ہونا۔ باطل ہونا۔

رَد۔ (ذ-ا-م-ث) (۱) [م-ث] چادر۔ اوڑھنی۔

رَد اہیت۔ (ر-د-ج-ص-ت-ن-ذ) (۱) [م-ث] (۱) خاند ہونا۔ خراب ہونا۔

رَد و اُلٹ۔ (ر-د-ج-ص-ت-ن-ذ) (۱) [م-ث] (۱) [م-ث] (۱) برادری سے نکالا ہوا۔

ر۔ ر۔ ر۔

رڑک - (ہ۔ ا۔ مٹ) غش۔ چھین۔ کھٹک۔
 رڑکا - (ہ۔ ا۔ مذ) بھارو (۷) ذہ۔ ریزہ۔
 رڑکنا - (ر۔ ٹک۔ نا) (ہ۔ مص) کھٹنا۔ چھینا۔
 رڑکنا - (ر۔ ٹک۔ نا) (ہ۔ مص) بلونا۔

ر۔ ر۔ ر۔

ررز - (ن۔ ا۔ مذ) (۱) انگر (۲) انگر کی پیل۔
 ررزاق - (رز۔ زاق) (ع۔ صفت) (۱) رزق پہنچانے والا۔ روزی رساں (۲)
 خدا تعالیٰ کا صفاتی نام۔
 ررزاتی - (رز۔ زات) (تی) (ع۔ ا۔ مٹ) (مٹ) رزق رسانی۔ رزق دینا۔
 ررزانت - (ع۔ ا۔ مٹ) بھاری پن۔ بوجھل پن (۲) کھٹ۔ آہستگی۔
 ررزوڈ - (Reserved) (ر۔ زر۔ و۔ ڈ) ڈانگ۔ صفت [مضموم۔

محفوظ جسے کوئی دوسرا استعمال میں نہ لاسکے۔
 ررزولیشن - (Reservation) تخصیص۔ خاص کرنے کا عمل۔
 ررزق - (ع۔ ا۔ مذ) (۱) روزی۔ خوراک۔ کھانا۔ اناج (۲) وظیفہ۔
 ررزق اترنا - (۱) محاورہ (از خود سامان رزق ہو جانا۔ غیب سے رزق
 کا بندوبست ہو جانا۔
 ررزق اڑ جانا - (۱) محاورہ) کھانے کو دانہ بانی میسر نہ آنا۔
 ررزق کا کپڑا - (۱) مذ) اناج کھانے والا (کنایتہ) انسان۔
 ررزق نہ پیلے باندھتے پیچی اور درویش۔ جن کا تکبیر رب سے
 ان کا ررزق ہمیشہ - (ایشل) جانور اور فقیر ررزق پلے باندھ کر نہیں پھرتے
 جو خدا پر بھروسہ کرتے ہیں۔ انہیں مل ہی جاتا ہے۔
 ررزق ہے نہ موت - (ایشل) بڑا بد قسمت ہے۔
 ررزٹ - (Result) (ر۔ ر۔ ٹٹ) ڈانگ - (۱) مذ) نتیجہ۔ انجام۔ حاصل
 ررزم - (ن۔ ا۔ مٹ) جنگ۔ معرکہ۔
 ررزم گاہ - (ن۔ ا۔ مٹ) میدان جنگ۔
 ررزم و رزم - (ن۔ ا۔ مٹ) میدان جنگ اور محفل۔ لڑائی اور
 عیش و عشرت کی جگہ۔
 ررزیم - (ررزیم۔ ی) (ن۔ صفت) رزم سے نسبت رکھنے والا (مٹ)
 جنگی داستان یا نظم۔

(۲) خراب (۳) کینڈہ۔
 ررؤہ - ررؤہ - ررؤہ - ررؤہ - (ن۔ ا۔ مذ) ایک چٹائی کے بعد دوسری چٹائی
 کے لیے اینٹ رکھنا۔
 ررؤسے جمانا - ررؤسے رکھنا - (۱) محاورہ (۱) اینٹیں اُپر تلے رکھنا (۲) ایک
 دفعہ کھا کر دوسری دفعہ کھانا (۳) پے درپے ہمت لگانا۔
 ررؤسی - ررؤسی - (ر۔ ری) (ع۔ صفت) (۱) خراب۔ ناکارہ۔ نیمخا۔ بگڑا ہوا۔
 (۲) (مٹ) خراب کا نذ۔ نیمخا کا نذر (۳) ررؤسی میں تشدید وال مستعمل ہے۔
 ررؤی کرنا - (۱) محاورہ) بیکار کرنا۔

ررؤیف - (ر۔ ر۔ یف) (ع۔ ا۔ مٹ) (۱) وہ شخص جو گھوڑے یا اونٹ
 وغیرہ پر کسی سوار کے پیچھے بیٹھے (۲) اصطلاح شعر میں وہ لفظ جو غزل
 یا قصیدہ وغیرہ کے مصرعوں یا بیتوں کے اخیر میں قافیے کے پیچھے
 بار بار آئے (۳) پیچھے کی فوج۔
 ررؤیف چمکنا - ررؤیف کا لطف دینا۔
 ررؤیف وار - ررؤیف تہی کی ترتیب سے۔

ر۔ ذ۔

ررڈالپن - (ر۔ ذال۔ پن) (ر۔ ا۔ مذ) بظہر پن۔ کینگی۔ پاجی پن۔
 ررڈالمت - (ر۔ ذال۔ مت) (ع۔ ا۔ مٹ) کینڈہ پن۔ اوچھاپن۔
 ررڈالہ - (ر۔ ذال۔ لہ) (ع۔ صفت) کینڈہ۔ کم ذات (۲) شریر۔ بد ذات۔
 بد معاش۔ بے شرم۔
 ررڈالہ مست ہو ا خدا کو کھجول گیا - (ایشل) ررذیل آدمی امیر ہو جائے تو
 بہت مغرور ہو جاتا ہے۔
 ررڈالوں کی دوستی پانی کی تکبیر شریفوں کی دوستی پتھر کی تکبیر۔
 (ایشل) کینڈوں کی دوستی کا کوئی اعتبار نہیں۔
 ررڈالے کا کھچہ - (۱) مذ) منہ پھٹ۔ بے شرم۔ بے باک۔ گستاخ۔ بے حیا۔
 ررڈالے کی جوڑو کو سد اطلاق - (ایشل) کینڈے اور پٹلے کو اپنے عہد کا
 کچھ پاس نہیں جوتا۔ کینڈہ قابل اعتبار نہیں جوتا۔
 ررڈالے کے ناخن ہونے - (ایشل) کینڈہ صاحب اختیار ہو گیا۔
 ررذیل - (ر۔ ذیل) (ع۔ صفت) منغل۔ فرومایہ۔ کینڈہ۔ پاجی۔ جمع، ررڈالہ۔
 ررذیل کی دونہ اشرف کی سو - (ایشل) کینڈے کی دو گالیاں بھی اشرف
 کی سو گالیوں سے بڑھ کر ہوتی ہیں۔
 ررذیلہ - (ع۔ ا۔ مٹ) کینگی۔ اوچھاپن۔ جمع، ررذائل۔

ر۔ ر۔

رریانہ - (ر۔ ر۔ یا۔ نہ) (ہ۔ مص) گرگڑانا۔

ر۔ س۔

ررس - (ہ۔ ا۔ مذ) (۱) شیرو۔ عرق۔ دودھ۔ گئے کا شیرو (۲) جو کھرسکت۔

رسالہ - (درسا۔ لہ۔ د۔ ع۔ ا۔ ۱۔ مذ) (۱) نامہ۔ مکتوب (۲) چھوٹی سی کتاب۔
(۳) مختلف حضرات کے مضامین کا مجموعہ جو مقررہ وقت پر شائع ہوتا ہے (۴) آٹھ سو یا ہزار سواروں کا دستہ۔

رسال - (ف۔ اسم حالیہ) پہنچنے والا۔ پہنچانے والا۔ مرکبات میں استعمال ہوتا ہے جیسے خبر رساں، چٹھی رساں۔

رسان - (ر۔ رسان) ڈاڑھ۔ ارمٹ (۱) ہتھکی۔ نرمی۔

رسانا - (د۔ مص) جوڑنا۔ ٹانگا لگانا (۱) برتن وغیرہ

رسانا - (ر۔ رسانا) (دھ۔ مص) (۱) حصّہ دلانا (۲) خفا کرنا۔ ناراض کرنا۔

رسانیا - (ہ۔ ۱۔ ہ۔ مذ) کیسیا گر۔

رساؤل - (ر۔ رساؤل) (دھ۔ ۱۔ مٹ) گنے کے رس کی کبیر۔

رسائل - (ر۔ رساؤل) (د۔ ع۔ ا۔ ۱۔ مذ) رسالہ کی جمع۔

رسائی - (ر۔ سا۔ ای) (ف۔ ۱۔ مٹ) (۱) پہنچ۔ وصل۔ گزار (۲) (د۔ ر) ربط

ضبط۔ میل طلب (۳) واقفیت۔ شناخت (۴) آہستگی۔ دھیرج۔

رسائی پانا - (۱) محاورہ) باریاب ہونا۔

رسائی کرنا - (۱) محاورہ) ہمارت۔ واقفیت یا رسوخ حاصل کرنا۔

میل طلب کرنا۔

رسائین - (ر۔ سا۔ این) (د۔ ۱۔ مذ) وہ دو اجزاء جو یا کوئی اور دھات مادہ

بنائی جائے۔ کیسیا۔ اکسیر۔

رسائین وودیا - (د۔ ۱۔ مٹ) علم کیسیا۔

رِسپانڈنٹ - (Respondent) (د۔ ۱۔ پان۔ ڈنٹ) (انگ۔ ۱۔ مذ)

جواب دہ۔ ایپلانٹ کا فریق ثانی۔

رُست - (ر۔ ۱۔ مٹ) (۱) قیامت (۲) ہنگامہ۔

رُست گار - (ر۔ رُست) (گار) (ف۔ ۱۔ مٹ) (۱) رلائی پانے والا۔ نجات پانے والا۔

رُست گاری - (رُست) (گا۔ ری) (ف۔ ۱۔ مٹ) (۱) رلائی۔ نجات۔

رُستم - (رُست) (تم۔ ف۔ ۱۔ مذ) (۱) نارس کا ایک مشہور بہادر پہلوان جس

کی بہادری کی داستانیں شاہ نامہ میں درج ہیں (۲) (مجازاً) ہر

بہادر۔ شجاع۔ زبردست۔

رُستم خان - (رُستم خان) (کچھ۔ رُستم) (کا۔ سا۔ لا۔ ۱۔ مذ) بہادر یا بڑے

آدمی کی رشتہ داری پر شہنی مارنے والا۔ رانی خان کا سالار۔

رُستمی - (رُست) (می) (د۔ ۱۔ مٹ) (۱) مردانگی۔ بہادری۔ جرأت۔ شجاعت

(۲) زبردستی۔ زور آوری۔

رُستہ - (رُست) (تہ۔ ف۔ ۱۔ مذ) راستہ کا مخفف۔

رُستہ تانا - (۱) محاورہ) رخصت کرنا۔ ٹان۔

رُستہ بھول کے نکل کرنا - (۱) محاورہ) جو شخص اتفاقاً آجائے اس سے

بطور شکر کہتے ہیں کہ کیا تم رُستہ بھول کے ادر آئے۔

رُستہ بانا - (۱) محاورہ) تدریس دینا۔ جانے کے لیے رُستہ ملنا۔

رُستہ پھرتو - (۱) (دھرتو) (لا۔ نو۔ پھلتے پھرتے نظر آؤ۔

رُستہ بہاڑ ہونا - (۱) محاورہ) راستہ دوپہر ہونا۔ رُستہ نہ لگنا۔

(۲) دھات کے کٹتے کو بھی رس کہتے ہیں (۴) منی - نطفہ (۵) آواز کی نرمی - آواز کی شیرینی (۶) نیشاپن (۷) محبت - عشق - جوش

(۸) (رقص کی اصطلاح) لوج۔

رُس اُترنا - (۱) محاورہ) گھوڑے کے سُم سے مواد کا پانی نکلنا۔

رُس بھری - (۱) (صفت) (۱) رس دار۔ شیریں۔ مزے دار۔ خوش ذائقہ

(۲) نیشلی۔ شمار آلودہ (۳) پیللی جیسا مزہ لگنے والا ایک پھل -

توت فرنگی (Raspberry)

رُس بھری باتیں - (۱) (صفت) میٹھی میٹھی باتیں۔

رُس چمکنا - (۱) محاورہ) جوش جوانی میں بھرنا۔ دودھ چمکنا۔

رُس چومس لینا - (۱) محاورہ) جوہر نکال لینا۔

رُس دینے مرے تو بس کیوں دیکھے - (۱) (مٹل) جو کام نرمی سے

چوسکتا ہے اس میں سختی نہیں کرنی چاہیے۔

رُس کپور - (۱) (مٹ) (۱) پاز کا جوہر جو پارے گندھک اور

نمک سے بنایا جاتا ہے۔

رُس کھائے رسائین بنتی ہے - (مٹل) تکلیف اٹھانے سے ناند ہوتا ہے

رُس کی باتیں - (۱) عشق و محبت کی باتیں - میٹھی میٹھی باتیں (۲)

لگاؤ کی باتیں۔

رُس مارے رسائین ہو - (مٹل) پارے کو جلاؤ تو چاندی ہو جاتا

ہے۔ تکلیف اٹھا کر انسان ترقی کرتا ہے۔

رُس میں بس ملانا - (۱) محاورہ) خوشی میں رنج پیدا کرنا۔

رُس - (ف۔ لا۔ نطق) رسیدن مصدر کا حصّہ امر جو کسی امر کے بعد آکر اسے

اسم فاعلی ترکیبی بنا دیتا ہے جیسے دادرس۔

رُس - (د۔ ۱۔ مٹ) (مغضب۔ غصہ۔ جند۔

رُسا - (ر۔ سا) (ف۔ ۱) پہنچنے والا (۲) بلند ہونے والا۔ دُور

جانے والا (۳) کامل (مرکبات میں استعمال ہوتا ہے جیسے ذہن رسا)

رُسا - (۱۔ ۱۔ مذ) شوبہ یا بیخی - حرق۔

رُسا - (د۔ رس) (سا۔ دھ۔ ۱۔ مذ) موٹی رسی۔ رسیان۔

رُسوں جگرے اب نہیں بھرے - (مٹل) چاہے کچھ ہی کدو اب

وہ نہیں بھرنے کے۔

رُسا کشی - (۱) (ف۔ مٹ) کھینچنا تانی۔ کش کش۔

رُسا گیر - (۱) (ف۔ صفت) مویشیوں کا چور۔

رُسال - (ر۔ سال) (دھ۔ صفت) (۱) رس دار۔ رس سے بھرا ہوا (۲) (مذ)

آہم گنا۔

رُسال - (ر۔ سال) (د۔ ۱۔ مٹ) (۱) چھاپھ جس میں غذا اور گرم سالار پڑا ہو۔

رُسالت - (د۔ سال) (ت۔ ع۔ ۱۔ مٹ) (۱) پیغام بری۔ لپچی گری سفارت۔

رُسالت پناہ، رُسالت ماب - (د۔ ع۔ ف۔ صفت) مراد پیغمبر صلعم۔

رُسالدار - (د۔ سال) (دار) (د۔ ۱۔ مذ) ایک رسالے کا افسر۔ سو

سواروں کا افسر۔

رُسالداری - (د۔ سال) (دا۔ ری) (د۔ ۱۔ مٹ) رسالے کی افسری۔

رُسالداری کا جہد۔

رستہ چھیننا - (۱- محاورہ) ایک راستے سے دوسرا راستہ نکل آنا۔ راستہ بدلنا۔
 رستہ چلنا - راہ چلتا مسافر۔ راہ گیر۔ جا تری۔
 رستہ سونھنا - (۱- محاورہ) تذبذب سونھنا۔
 رستے پر آنا - (۱- محاورہ) درست ہو جانا۔ نیک بن جانا۔ سیدھی راہ پر آنا۔
 رستے لگا دینا - کام پر ڈال دینا کسی شے میں لگا دینا۔ راستہ بتانا۔
 رستوران - (Restaurant) - (انگ - مذ) طعام خانہ۔
 رسد - (رسد) - (ف - ۱- مٹ) (۱) حصہ۔ نصیب۔ بھاگ۔ قسمت (۲)
 جنس غلہ (۳) لائق۔ مناسب (۴) [آر] ذخیرہ۔ آذوقہ، بوشکر یا
 قافلے کے ہمراہ ہو (۵) راشن۔ راتب۔ خوراک۔ بھوجن۔ زادراہ۔
 رسد رسانی - (ف - ۱- مٹ) غلہ رسانی۔ غلہ اور اجناس وغیرہ کا کسی
 لشکر یا جگہ میں پہنچانا۔
 رسد ملنا - (۱- محاورہ) ضروری سامان بہم پہنچانا۔
 رسدی - (ف - صفت) جتنے کے مطابق۔
 رستی - (رس - بری - ف) - (۱- مٹ) رستی۔
 ریسک - (Risk) - (انگ - ۱- مذ) خطرہ۔ خوف۔ جوکھوں۔
 رسٹل - (ع - ۱- مذ) رسول کی جمع۔
 رسل و رسائل - (ع - ۱- مذ) نقل و حمل۔ نقل و حرکت۔ آمد و رفت۔
 رسم - (ع - ۱- مٹ) (۱) نقش۔ نشان۔ تحریر۔ نوشت (۲) [مجانا] دستور
 قانون۔ رواج (۳) [آر] عادت۔ چال چلن۔ طور و طریق (۴) تنخواہ۔
 وظیفہ (۵) عمدتاً۔ اجرت (۶) منطق/مضامین کے ساتھ کسی چیز کی
 تعریف (۷) بچوں کا کھیل۔ جمع: رسوم۔
 رسم اٹھانا - (۱- محاورہ) عادت اور رواج کے خلاف کرنا۔
 رسم اٹھ جانا - (۱- محاورہ) چلن باقی نہ رہنا۔ طریقہ متروک ہو جانا۔
 رسم الخط - (ع - ۱- مذ) طرز تحریر۔
 رسم و رواج - دستور۔ قاعدہ۔ ریت۔ رسم۔
 رسم و راہ - (ع - ف - ۱- مٹ) میل جول۔ ربط۔ ضبط۔ برتاؤ۔
 دستور۔ ڈھنگ۔
 رسما - (ع) رسم کے طہر پر۔
 رسمنہ - (رس - م - س) (۵) صفت [پانی وغیرہ سے تر گیلنا۔
 رسمنہ سنا - (رس - م - س) (نا) (۵) صفت [انگڑائی لینا۔ ناز سے ایندنا۔
 رسمنسی - (رس - م - سی) (۵) صفت [رسمنہ کی تائید۔
 رسمنی - (رس - سی) (ع - صفت) عام۔ معمولی۔ درمیانی۔ رواجی۔
 رسن - (رسن) (ف - ۱- مٹ) رستی۔
 رسنا بسنا نصیب ہو - [آر] مش [رہنا سہنا۔ پھولنا پھلنا نصیب ہو۔
 رسنا - (رس - نا) (۵) [مصل] (۱) چپکنا (۲) خفا ہونا۔ ناراض ہونا۔
 رسوا - (رس - وا) (ف - صفت) ذلیل۔ خوار۔ بے عزت۔ بے عزت۔
 رسوائی - (رس - وا - ای) (ف - ۱- مٹ) بدنامی۔ بے عزتی۔ ذلت۔ بیعت
 رسوائی سی رسوائی - (ف - ۱- مٹ) حد سے زیادہ بدنامی۔
 رسوب - (رسوب) (ع - ۱- مذ) وہ چیز جو پانی یا شراب اور پیشاب
 وغیرہ کی تہ میں بیٹھ جائے۔ دُرد۔ پھٹ۔ گا۔

رسکوت - (رسکوت) (۵- ۱- مٹ) ایک تلخ دوا جو اکثر آنکھوں یا
 پھینسیوں کی دوائ میں پڑتی ہے۔
 رسوخ - (رسوخ) (ع - ۱- مذ) (۱) مصنوعی۔ استوری (۲) قیام۔ ثبات۔
 استقلال (۳) [آر] رسائی۔ ربط ضبط۔ اعتماد۔ اعتبار۔
 رسول - (رسول) (ع - ۱- مذ) (۱) بھیجا ہوا (۲) (اصطلاحاً) خدا کی طرف سے
 بھیجا ہوا پیغمبر جو کتاب الہی بھی لائے (۳) قاصد۔ پیغمبر۔ اپچی (۴)
 ہادی۔ پیشوا۔ جمع: رسل۔
 رسول شاہی - اگر ادیش فقرا کا ایک فرقہ جس کے بانی رسول شاہ نامی
 ایک درویش کامل تھے۔ یہ لوگ چارابرو کا مہیا کرتے۔ صرف ایک
 ننگی بانڈھے اور شراب کو حلال سمجھتے ہیں۔
 رسولی - (رسولی) (۵- ۱- مٹ) گلی۔ وہ گڑھ جو مواد سے ہو
 جاتی ہے۔
 رسوم - (رسوم) (ع - ۱- مذ) رسم کی جمع (۱) نشان۔ نقوش (۲)
 آئین۔ قوانین۔ مادیت (۳) [آر] اسٹیمپ کی فیس۔ کورٹ فیس (۴)
 کسی حصہ زمینداری سے واجب الوصول محصول (۵) پکے ہوئے
 مال پر کیشن یا دستوری۔
 رسوم اعلیٰ نمبردار - (ع - ۱- مٹ) نمبردار کا کیشن اور رعایت۔
 رسوم عدالت - (ع - ۱- مٹ) (۱) سرکاری خرید (۲) کورٹ فیس
 رسوم (۳) اسٹیمپ۔
 رسوم محرقہ - (ع - ۱- مٹ) تجارت اور حرفہ کا محصول۔
 رسولی - (رسولی) (۵- ۱- مٹ) (۱) کھانا۔ طعام۔ بھوجن (۲) بوجا۔
 باورچی خانہ۔
 رسیا - (رسیا - ای) (یا) (۵- ۱- مذ) باورچی۔ کھانا پکانے والا۔ برہمن۔
 رستی - (رس - سی) (۵- ۱- مٹ) (۱) رکن۔ ریسہاں۔ موٹی اور لمبی ڈوری (۲)
 ایک پیمانہ جو سو فٹ لمبا ہوتا ہے (۳) (کنایتاً) سانپ۔
 ناک۔
 رستی بٹنا - (۱- محاورہ) ٹوٹھ یا سن وغیرہ کو بل دے کر رستی بنانا (اصطلاحاً) ہلنا
 رستی تڑانا - (۱- محاورہ) بھاگنا۔ شرمعت سے جانے کی کوشش کرنا۔
 آزاد کرنا۔
 رستی جل گئی پر بل نہیں گیا - [دیش] (۱) دولت اور عزت جاتی رہی
 مگر عذر نہ لگیا (۲) سزا جھگٹے پر بھی بڑی عادت نہ گئی۔
 رستی دراز ہونا - [دش] رستی کا طویل اور لمبا ہونا (۲) دوزخ پہنچ
 جانا (۳) بہت لمبا (۴) بڑی عمر والا ہونا۔
 رستی ڈھیلی چھوڑنا - (۱- محاورہ) (۱) آزادی دے دینا (۲) نگرانی کم کرنا
 (۳) چشم پوشی کرنا (۴) لگام ڈھیلی کر دینا۔
 رستی کا سانپ بنانا - (۱- محاورہ) بے اصل بات کی دھوم مچانا غلط
 خیال کو فروغ دینا۔
 رستی کوتاہ ہونا - (۱- محاورہ) (کنایتاً) عمر کم ہونا۔
 رسیا - (رس - یا) (۵- صفت) (۱) رس لینے والا۔ مزہ ٹوٹنے والا (۲) شو تین
 رنگیلا۔ وضعدار (۳) مستعد۔

رُسیدہ - (ر۔سید) (ف۔ا۔مٹ) [(۱) پیچ۔ (۲) رسائی (۳) کسی چیز کے وصول ہونے کی دستخطی نوشت پینینے کا اقرار (۳) پتا۔ خبر۔ سرائے (۴) پینینے کی بازی میں کسی کو سر پہنچانا۔

رُسیدہ تک نہ دینا۔ (۱) محاورہ (۲) اقرار نہ کرنا۔ (۳) اقراری نہ ہونا۔ (۴) توجہ نہ دینا۔
رُسیدہ کرنا۔ (۱) محاورہ (۲) لگانا۔ مارنا۔ جڑنا (۳) دخول کرنا۔ پہنچانا۔

رُسیدہ۔ (ر۔رسی۔دہ) (ف۔صفت) (۱) پہنچا ہوا (۲) بالغ (۳) خدا کو پہنچا ہوا (۴) پختگی پر پہنچا ہوا میوہ یا پھل (۵) ہتلا۔ مرکبات میں استعمال ہوتا ہے جیسے اجلی رُسیدہ۔

رُسیدہ بود بکلائے ولے بکینے گزشت۔ (ف۔بش) [معصیت تو آئی تھی مگر بچ گئے۔ اس وقت کہتے ہیں جب انسان کسی ناکامی معصیت سے بچ جائے۔

رُسیدلا۔ (ر۔رسی۔لا) (ف۔صفت) (۱) رُس بھرا۔ عرق دار (۲) شہریں اور مزے دار۔ خوش ذائقہ۔ لذیذ (۳) باشکا۔ شہریں اور۔ ریچلا۔

رُسلی۔ (ر۔رسی۔لی) (ف۔صفت) (۱) رُسلی کا تینٹ۔
رُسلی لکھنا۔ (۱) صفت (چشم مے کون۔ چشم نمور۔ نیشی آنکھ۔ خوش وضع آنکھ۔ چشم مست۔

رُسپور۔ (Receiver) (ر۔رسی۔ور) (انگ۔۱) (۱) کسی جامداد کار کا رسائی نگوں (۲) ٹیلی فون کا وہ حصہ جس سے آواز سنتے ہیں۔

ر۔ش

رُش۔ (Rush) (انگ۔۱) (۱) رازدحام۔ (۲) بڑھ کر۔
رُشتہ۔ (ر۔ش۔تہ) (ف۔۱) (۱) ناگ۔ ڈورا۔ کاتا ہوا سوت (۲) قرابت۔ رشتہ داری۔ ناتا (۳) سلسلہ۔ تعلق۔ لگاؤ۔ واسطہ۔ (۴) (اُر) لڑی۔ نظم۔ سبک۔ (۵) نسل۔ خاندان (۶) (ف) ایک بیماری جس میں پاؤں میں سے تانے کے مانند ایک باریک سا جامداد کیرا نکلتا رہتا ہے۔

رُشتہ اُلفت۔ (ف۔۱) (۱) دوستی۔ محبت کا تعلق۔
رُشتہ بگیا۔ (ف۔۱) (۱) پاؤں میں ڈورا بندھا ہوا۔ مقید۔ پا پر زنجیر۔
رُشتہ ٹوٹنا۔ (۱) محاورہ (۲) بے تعلق ہو جانا۔ تعلق منقطع ہونا۔
رُشتہ سجان و حیات۔ (ف۔۱) (۱) سانس لینے کا سلسلہ۔
رُشتہ جوڑنا۔ (۱) محاورہ (۲) شادی کرنا۔ نسب کا سلسلہ چلانا۔
رُشتہ حیات منقطع ہونا۔ (۱) محاورہ (۲) مرجانا۔
رُشتہ دار۔ (ف۔۱) (۱) قریبی۔ اہل برادری بتعلقین۔ بھائی بند۔
رُشتہ داری۔ قرابت۔ برادری۔

رُشتہ وندال۔ (۱) دانتوں کی قطار۔
رُشتہ شمع۔ (ف۔۱) (۱) وہ ڈورا جو شمع کے اندر ہوتا ہے اور جلایا جاتا ہے
رُشتہ عمر۔ (ف۔۱) (۱) (۱) ایک دھاک جس میں سال گزرنے پر ایک گڑہ دے دیتے ہیں۔

رُشتہ قطع کرنا۔ (۱) محاورہ (۲) تعلق توڑ دینا۔ دوستی ختم کر دینا۔
رُشتہ کرنا۔ (۱) محاورہ (۲) نسبت کرنا۔ شادی کرنا۔ تعلق پیدا کرنا۔
رُشتہ مریم۔ (ف۔۱) (۱) ایک نہایت باریک دھاکا جو کہتے ہیں کہ حضرت مریم نے کاتا تھا۔
رُشتہ ناتا۔ (ف۔۱) (۱) میل جول۔ تعلق۔ قرابت۔

رُشحات۔ (رُش۔حات) (ف۔۱) (۱) رُشہ کی جمع۔ بوند۔ رُس۔
رُششم۔ (رُش۔شم) (ف۔۱) (۱) (۱) ٹپکن۔ پانی کا ٹپکنا (۲) بوند (۳) رُس۔ (۴) پینینے۔ جمع: رُشحات۔

رُشحات قلم۔ (ف۔۱) (۱) (۱) تحریر۔ مضمون۔ جو کچھ قلم سے لکھا جائے۔
رُششد۔ (ف۔۱) (۱) (۱) ہدایت (۲) ہوش بنبھالنا۔ بالغ ہونا (۳) سچائی۔
رُششک۔ (ف۔۱) (۱) (۱) سُد۔ جلیں (۲) رتا بہت (۳) یہ آرزو کہ جو چیز دوسرے کو حاصل سے مجھے بھی مل جائے۔

رُشک آنا۔ (۱) محاورہ (۲) کسی کے برابر ہونے کی خواہش ہونا۔ کسی عروج کو دیکھ کر کڑھنا۔
رُشک پری۔ (۱) رُشک خور۔ (۲) رُشک یوسف۔ (۳) (ف۔۱) صفت) ایسا خوبصورت جس کے حسن و جمال پر پری حور اور حضرت یوسفؑ کو بھی رُشک آئے۔ نہایت خوبصورت۔

رُشک فہر۔ (ف۔۱) (۱) (۱) ایسا خوبصورت جس پر جامد کو بھی رُشک آئے۔
رُشوت۔ (رُش۔وت) (ف۔۱) (۱) (۱) شہ۔ ناجائز نذرانہ۔ ظلم سے لینا۔
رُشوت خوار۔ (۱) رُشوت خور۔ (۲) (ف۔۱) صفت) رُشوت کھانے والا۔
رُشوت لینے والا۔
رُشوت ستانی۔ (ف۔۱) (۱) (۱) شہ۔ ناجائز طریقے سے روپیہ حاصل کرنا۔

رُشی۔ (ر۔س۔۱) (۱) (۱) خدا پرست۔ سادھو۔ عابد۔ جوگی۔ درویش۔
رُشید۔ (ر۔شید) (ف۔۱) (۱) (۱) ہدایت یافتہ۔ ہدایت کیا ہوا (۲) تعلیم یافتہ۔ تربیت یافتہ (۳) میدھی راہ دکھانے یا پانے والا (۴) خدانے تعالیٰ کا صفاتی نام۔

ر۔ص

رُصاص۔ (ر۔صاص) (ف۔۱) (۱) (۱) قلمی۔ سببہ۔ پین۔
رُصہ۔ (ف۔۱) (۱) (۱) مشاہدہ کرنا۔ ملاحظہ کرنا۔ دیکھ بھال۔ مشاہدہ۔
رُصہ بندی۔ (ف۔۱) (۱) (۱) مشاہدہ سارگاں یا تاروں کا مشاہدہ۔
رُصہ گاہ۔ (۱) ستاروں کی گردش دیکھنے کی جگہ۔ جتہ منتر۔ (انگ) (Observatory)

ر۔ض

رُض۔ (ر۔ض) (۱) (۱) رضی اللہ عنہ کا اختصار۔ خدانے سے راضی ہوا۔

رطوبت اصلیت۔ وہ تری جو غلطی طور پر عضو بدن میں ہوتی ہے۔
رطوبت پیمیا۔ رطوبت کا اندازہ کرنے والا آلہ - (Hygrometre)

ر - ح

رعایا۔ (ر۔ عا۔ یا)۔ (ر۔ ع۔ ا۔ مٹ) [(۱) رعیت کی جمع۔ محکم لوگ (۲) آسامی۔ کاشت کار۔
رعایت۔ (ر۔ عا۔ یت)۔ (ر۔ ع۔ ا۔ مٹ) [(۱) پاس رنگھائی۔ لحاظ۔ خیال۔ نگہداشت (۲) مناسبت (۳) طرفداری (۴) مہربانی (۵) توجہ (۶) کمی۔ تخفیف۔ (۷) نرم۔ نرمی (۸) ایک قسم کی تحریر جس میں الفاظ شہادت اور استعارے پہلے لفظ کی مناسبت سے آتے ہیں۔
رعایت کرنا۔ (ا۔ عا۔ و) طرفداری کرنا۔ کسی بات کا خیال یا لحاظ رکھنا۔
رعایتی۔ (ر۔ عا۔ ی۔ تی)۔ (ر۔ ع۔ صفت) [(۱) وہ شخص جس کے ساتھ کچھ لحاظ کیا جائے۔ آورده (۲) سفارشی۔
رعایتی پٹنا۔ (ر۔ ع۔ ن۔ ا۔ نذ) کاشتکاروں کو دی ہوئی رعایتی تحریر جس میں لگان کی تخفیف درج کی جاتی ہے۔
رعایتی رخصت۔ (ر۔ ع۔ ن۔ ا۔ مٹ) ایک قسم کی رخصت جو گیارہ مہینے کی زکری کے بعد پوری تنخواہ پر ملتی ہے۔
رُعب۔ (ر۔ ع۔ ا۔ نذ) ڈر۔ خوف۔ ترس (اُر) دبہ۔ شان و شوکت۔ شکوہ۔ دھاک۔ جلال۔
رُعب باندھنا۔ رُعب بٹھانا۔ (ا۔ عا۔ و) خوف بٹھانا۔ ہیبت بٹھانا۔ دھاک باندھنا۔
رُعب بٹھانا۔ (ا۔ عا۔ و) خوف غالب ہونا۔ دہشت غالب ہونا ہیبت آنا۔
رُعب حسن۔ (ر۔ ع۔ ن۔ ا۔ نذ) حسن کی دھاک۔ حسن کا دبہ۔
رُعب دار۔ (ر۔ ع۔ ن۔ ا۔ نذ) دبہ۔ شان و شوکت۔ جاہ و جلال۔
رُعب دار۔ (ر۔ ع۔ صفت) دیدہ و بالا۔ خوفناک۔ ڈراؤنا۔ بھیانک۔
رُعب ماننا۔ (ا۔ عا۔ و) خوف میں آجانا۔ دہشت میں آجانا۔
رُعب ہونا۔ (ا۔ عا۔ و) دبہ ہونا۔ ڈر ہونا۔
رُعب۔ (ر۔ ع۔ ا۔ نذ) بجلی کی کوک۔ گرونگراہٹ (۲) آواز جو ابر سے پیدا ہوتی ہے۔

رُعب و برق۔ (ر۔ ع۔ نذ۔ مٹ) بجلی اور کوک۔
رُعبہ۔ (ر۔ ع۔ شہ)۔ (ر۔ ع۔ ا۔ نذ) [(۱) لڑکھ۔ تھر تھر اہٹ۔ کپکپی (۲) ایک جہاز جس سے خود بخود لاٹھ وغیرہ کا پتے ہیں۔
رُعبہ برانڈام۔ (ر۔ ع۔ ن۔ صفت) بدن پر کپکپی طاری ہونا۔
رُعبہ دار آواز۔ (ر۔ ع۔ ن۔ ا۔ مٹ) وہ آواز جس میں کپکپی ہٹ ہو۔
رُعبی ہوئی آواز۔
رُعبنا۔ (ر۔ ع۔ نا)۔ (ر۔ ع۔ صفت) [انداز سے چلنے والا۔ خوش خرام (۲) خوشنا۔ زیا (۳) خوبصورت۔ حسین (۴) نازک۔ نرم (۵) ایک چھول (۶) چالاک۔ طرار۔

رُعبنا۔ (ر۔ عا۔ ج۔ ا۔ مٹ) [(۱) خوشنودی۔ خوشی۔ مرضی (۲) اجازت۔ مہلت۔ رُخصت (۳) دیکھی جس کی تنخواہ نہیں کاٹی جاتی۔
رُعبنا۔ (رُعبنا)۔ (ر۔ ع۔ ا۔ مٹ) [راضی ہونا۔ خوش ہونا۔
رُعبنا بقضا۔ (ر۔ ع۔ ن۔ مٹ) [جو خدا کی مرضی ہے اس پر راضی ہیں۔ تقدیر پر راضی ہونا۔
رُعبنا پانا۔ (ا۔ عا۔ و) اجازت پانا۔
رُعبنا جو۔ (ر۔ ع۔ ن۔ صفت) دوسرے کی رضا مندی چاہنے والا۔ دوسروں کو خوش کرنے والا۔
رُعبنا کار۔ (ر۔ ع۔ ن۔ صفت) اپنی مرضی سے اپنے آپ کو خدمت ملک و قوم کے لیے پیش کرنے والا۔ والنٹر۔ (Volunteer)
رُعبنا کارانہ۔ (ر۔ ع۔ ن۔ صفت) اپنی مرضی سے۔ بلا جبر و اکراہ۔
رُعبنا مند۔ (ر۔ ع۔ ن۔ صفت) راضی۔ خوش۔ منظور کرنے والا۔
رُعبنا مندی۔ (ر۔ ع۔ ن۔ ا۔ مٹ) خوشنودی۔ منظور۔
رُعبناے مولیٰ ازہم اولیٰ [نیشل] خدا کی مرضی سب سے بہتر ہے۔
رُعبنا عت۔ (ر۔ عا۔ عت)۔ (ر۔ ع۔ ا۔ مٹ) شیر خواری۔ دودھ پلانا۔ بچوں کے دودھ پلانے کا زمانہ جو دو سال کا ہے۔
رُعبنا عی۔ (ر۔ عا۔ عی)۔ (ر۔ ع۔ صفت) دودھ شریک۔ وہ بچے جنہوں نے ایک ہی عورت کا دودھ پیا ہو۔
رُعبنا عی بھائی۔ (ر۔ ع۔ ن۔ ا۔ مٹ) دودھ شریک بھائی۔ کوکا۔
رُعبنا۔ (ر۔ عا۔ ای)۔ (ا۔ مٹ) [(۱) رنگے ہوئے کپڑے کی روئی والی ڈولائی (۲) چھوٹا لحاف (۳) گڈگڈی۔
رُعبوان۔ (رُعب۔ وان)۔ (ر۔ ع۔ ا۔ نذ) [(۱) ایک فرشتہ جو بہشت کا دربان اور نول ہے (۲) بہشت (۳) برکت (۴) رضا مندی۔
رُعبوی۔ رُعبویہ۔ (رُعب۔ وی۔ رُعب۔ وی۔ رُعب۔ وی)۔ (ر۔ ع۔ صفت) [امام علی رضا سے نسبت رکھنے والا۔ اُن کی اولاد۔
رُعبی۔ (ر۔ ع۔ صفت) پسندیدہ (۲) خوشنود۔
رُعبی اللہ عتہ۔ (ر۔ ع۔ کلہ) دُعا۔ کلہ دُعا جو صرف صحابہ رسول کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اللہ ان سے راضی ہو۔
رُعبیغ۔ (ر۔ ع۔ صفت) [(۱) دودھ شریک (۲) دودھ پینا بچہ۔
رُعبینا بقضا۔ (ر۔ ع۔ مقولہ) ہم اللہ کے حکم پر راضی ہوئے۔

ر - ط

رُطب۔ (ر۔ ع۔ صفت) تازہ۔ نرم۔ بگلا۔
رُطب اللسان۔ (ر۔ ع۔ صفت) بہت تعریف کرنے والا۔ مداح۔ تر زبان۔
رُطب ویالیں۔ (ر۔ ع۔ صفت) تر و خشک۔ بڑا بھلا۔ نیک و بد۔
رُطب۔ (رُطب)۔ (ر۔ ع۔ ا۔ نذ) تازہ اور تر کھجور۔
رُطل۔ (ر۔ ع۔ ا۔ نذ) [(۱) جام شراب (۲) آدھے سیر کا وزن۔ جمع : اُرطال۔
رُطوبت۔ (رُطوبت)۔ (ر۔ ع۔ ا۔ مٹ) [(۱) تری۔ نمی۔ میل (۲) فحوک۔ (۳) نرمی۔ تازگی۔

بہتری (۴) آرام۔

رُفت - (ف-مٹ) رفتن مصدر سے ماضی مطلق (۲) چلنا۔ روانگی۔ اُردو میں

زیادہ تر آدورفت میں استعمال ہوتا ہے۔ رفتہ کا محقق کیا ہوا۔

رُفت گزشت - (رُفت-گ-گ) رفت (ف-ا-مٹ) (۱) گئی گذری

رُفت دُفع (۲) نال مٹول۔

رُفت گزشت کرنا۔ (۱) معاورہ) باز آنا۔ معاف کرنا۔ خیال نہ کرنا۔ دہانا

آیا گیا کرنا۔ جانے دینا۔

رُفتار - (رُفت-تار) (ف-ا-مٹ) (۱) چال (۲) چلن۔ رُوش۔

رُفتار اُڑانا۔ (۱) معاورہ) چال یا دُفع کی نقل کرنا۔

رُفتار روگفتار۔ (ف-ا-مٹ) چال چلن۔ طور طریقہ۔

رُفتگان - (رُفت-گان) (ف-ا-مٹ) رفتہ کی جمع۔ گئے ہوئے یا مرے

ہوئے لوگ۔

رُفتگی - (رُفت-گ) (ف-ا-مٹ) (۱) بخودی (۲) نقصان۔ جاتے رہنا

رُفتگی - (رُفت-رئی) (ف-صفت) جانے کے قابل۔ جانے پر مجبور

(۲) جانے والا (۳) عارضی۔

رُفتہ - (رُفت-تہ) (ف-صفت) (۱) بخود۔ عاشق (۲) گیا ہوا (۳) مرا ہوا۔

(۴) کھویا ہوا۔ جمع، رفتگان۔

رُفتہ رفتہ - آہستہ آہستہ۔ ہولے ہولے۔ بتدریج۔

رُرف - (رُف-رُف) (رُف-ا-مٹ) (۱) لہروں کی تیز حرکت (۲) پروں کی

پھڑپھڑاہٹ (۳) ایک چوڑا طاقہ جس پر گھر میں قیمتی اشیاء رکھتے

ہیں (۴) سبز کپڑا جس کے فرش وغیرہ بستے ہیں (۵) ٹیکہ۔ سرلانہ۔ فرش

(۶) کوئی نالتو چیز جو ٹھکتی رہے (۷) خیمے کے نیچے کا کپڑا (۸) زدہ

کے پہلو جو نیچے لگے رہیں (۹) کوئی چیز جو خود کے پچھل طرف لگائی

جائے اور ٹھکتی رہے (۱۰) حضرت امراٹیل کے رہنے کا مقام (۱۱)

ایک درخت جو زمین میں ہوتا ہے (۱۲) ایک قسم کی پھلی (۱۳) وہ

جاؤ جس پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں سوار ہوئے تھے۔

رُفص - (ر-ع-ا-مٹ) (۱) چھوڑنا (۲) راضی ہونا (۳) اختلاف۔ بدعت۔

رُفح - (ر-ع-ا-مٹ) (۱) اٹھانا۔ بلندی۔ اُوچائی۔ اُٹھان (۲) باز رہنا۔

چھوڑنا (۳) منہ۔ پیش۔

رُفح احتیاج (حاجت)۔ (ر-ع-ا-مٹ) (۱) پیش پاخانہ کرنا۔

رُفح دُفع - (ر-ع-ا-مٹ) (۱) دُور کرنا۔ ہٹانا۔ دہانا۔ معاف کرنا۔ باز رہنا۔

رُفح یدین - (ر-ع-ا-مٹ) (۱) نماز میں تجھیر کہتے ہوئے دونوں ہاتھ اٹھانا۔

(۲) نماز میں ہر دفعہ تجھیر کہتے ہوئے ہاتھوں کو کاٹوں تک لے جانا۔

اہل حدیث اسے ضروری سمجھتے ہیں۔

رُفعت - (رُف-عت) (ر-ع-ا-مٹ) (۱) بلندی۔ اُوچائی (۲) ترقی۔

رُفتے کی بلندی (۳) بزرگی۔ عزت۔ شان۔

رُفح - (ر-ع-ا-مٹ) (۱) زری۔ مہربانی۔

رُفقاہ - (رُف-ق) (ر-ع-ا-مٹ) (۱) رفیق کی جمع۔ ساتھی۔ دوست۔

رُفل - (رُف-ا-مٹ) (۱) رائفل (Rifle) کا کپڑا ہوا (۲) ایک قسم کا

باریک کپڑا۔ ایک قسم کی ایک نالی بندی جس میں سے گولی بھگ کر نکلتی ہے

رُعننا زبیا۔ (ر-ع-ف-ا-مٹ) ایک قسم کے ریشمی کپڑے کا نام۔

رُعنائی - (ر-ع-نا-ای) (ر-ع-ا-مٹ) خود آرائی۔ وضع داری۔ دورنگی

چالاک۔ طراری۔ خوش خرمی۔

رُعونت - (ر-ع-ن-ت) (ر-ع-ا-مٹ) (۱) عزت۔ سرکشی۔ گھمبہ زبان (۲) شیخی۔

رُعی بندہ - (ر-عی-بندہ) (ر-عی-ا-مٹ) (۱) زمینوں کے زرخوں کا نقشہ۔

رُعیعت - (ر-عی-یت) (ر-ع-ا-مٹ) (۱) آسامی (۲) کراہی دار (۳) کاشتکار

(۴) دنیا کے لوگ جو کسی حاکم کے ماتحت ہوں (۵) وہ شخص جو لیز کر لے

کے کسی مکان میں رہے۔

رُعیقی - (ر-عی-قی) (تی-ر-ع-صفت) (۱) رعیت کا۔ رعیت کی ملکیت

(۲) جو کاشتکار یا آسامی کو دی جائے (۳) اُڑ-مٹ) دخل کاری۔

قبضہ کراہی داری (۴) اطاعت۔ تابعداری (۵) زمین جس کی مالکداری

نقدی میں دی جائے (۶) زمین جو براہ راست کاشتکار کو کاشت کے

لیے دی جائے (۷) زمین جس پر کاشتکار رہے اور کاشت کرے۔

ر-ع-غ

رُعبنت - (ر-ع-بت) (ر-ع-ا-مٹ) (۱) خواہش۔ آرزو (۲) رُجمان

میلان۔ توتہ (۳) شوق۔ پیار۔ جاؤ۔

رُعبنت دلانا۔ (۱) معاورہ) خواہش پیدا کرنا۔ اُگسانا۔

رُعبنت رکھنا۔ (۱) معاورہ) میلان ہونا۔ خواہش کرنا۔

رُعبنت کی آنکھ سے دیکھنا۔ (۱) معاورہ) پسند کرنا۔ خواہش کرنا۔

رُعغم - (ر-ع-ا-مٹ) (۱) نفرت۔ حقارت۔ تجھیر (۲) مجازاً کسی کے

بُرخلاف کام کرنا۔

ر-ف

رُف - (Rough) (انگ-صفت) (۱) کھُور۔ ناظلم۔ ناہموار (۲) ابتدائی

حالت میں۔ اندازے پر مبنی۔ تخمینہ (۳) گنا پھنا۔ نامرتب۔ بھونڈا۔

رُفاقت - (ر-ف-ق) (ر-ع-ا-مٹ) (۱) ہمراہی۔ ساتھ (۲) محبت۔ دوستی

اتحاد (۳) اُڑ) دُفاداری۔ خیر خواہی (۴) ہمدردی۔ معاونت۔

رُفاقت سے مُرہ موڑنا۔ (۱) معاورہ) ساتھ چھوڑنا۔

رُفاقت کرنا۔ (۱) معاورہ) (۱) ساتھ دینا۔ ہمراہ رہنا (۲) دُفاداری کرنا

خیر خواہی کرنا۔

رُفاه - (ر-ع-ا-مٹ) (۱) آرام۔ چین (۲) وہ کام جس سے لوگوں کو آرام

ہے (۳) نیکی۔ بھلائی۔ بہتری۔

رُفاه عام - رُفاه خلایق - (ر-ع-ا-مٹ) عام لوگوں کی بھلائی۔ سب

کے آرام کا کام۔

رُفاهیت - (ر-ف-ہ-یت) (ر-ع-ا-مٹ) (۱) خوشی (۲) بھلائی (۳)

رقو - (ع - ۱۸) پھٹے ہوئے کپڑے کی تاگوں سے مرمت کرنا۔ پھٹی ہوئی جھکڑ بھڑانا۔
 رفو چکر ہونا - (۱) محاورہ، بھاگ جانا۔ چل دینا۔
 رفو کرنا - (۱) محاورہ، کپڑے کے سوراخ کو تاگوں سے پیوند لگانا۔
 رفو کر - (ع - ف - ۱) مذکر کرنے والا۔ وہ شخص جو شال دوشالے وغیرہ پر میں رفو کرتا ہے۔
 رفو گرمی - (ع - ف - ۱) مذکر کرنے کا پیشہ۔ رفو کا کام۔
 رفیدہ - (زنی - ۵) مذکر (۱) وہ پھوس بھری ہوئی گول گدی جس پر روٹی رکھ کر تیز میں لگاتے ہیں (۲) [اُر] [طز] گول اور بد وضع پگڑی (۳) گدڑا جو گھوڑے کی زین کے نیچے رکھتے ہیں۔
 رفیع - (ع - صفت) اُدنی۔ بلند۔
 رفیع الدرجات - (ع - صفت) بڑے درجے یا رتبے والا۔
 رفیع الشان - (ع - صفت) بڑی شان یا رتبے والا۔
 رفیق - (زنی - ۱) مذکر (۱) ساتھی۔ ہم راہی۔ ہم سفر (۲) مددگار۔ معاون (۳) خیر خواہ (۴) مصاحب۔ ہم نشین (۵) دوست۔ یار (۶) کسی کام میں شریک (۷) مرید۔ پیرو۔ (ع - صفت) جمع رفقاء۔ فارسی جمع رفیقان۔
 رفیق حیات - (ف - ۱) مذکر زندگی بھر کا ساتھی۔ شوہر۔ خاوند۔
 رفیقہ حیات - (ف - ۱) مذکر بیوی۔ رفیق حیات کی تائید۔
 رفیق کج تنہائی کتاب است - (ف - مقولہ) تنہائی کی بہتر۔ دوست کتاب ہوتی ہے۔

رقبہ بندی - (ف - ۱) مذکر کسی جائیداد یا ضلع وغیرہ کا رقبہ معرکہ کرنا۔
 رقبہ قابل تشخیص جمع - (ف - ۱) مذکر وہ رقبہ جس پر حصول ہو یا ہونے کو ہو۔
 رقبہ مشہورہ کمیٹی - (ف - ۱) مذکر (رقبہ نمائندہ ایسوسی ایشن) پانچ ہزار سے کم نفوس کی آبادی والے علاقوں میں بیرونی کمیٹی کی طرح کی کمیٹی
 رقبہ نکالنا - (۱) محاورہ، حساب کے طریقے سے کسی زمین یا سطل کا رقبہ دریافت کرنا۔
 رقت - (رق - قت) (ع - ۱) مذکر (۱) زمی۔ پتلپن (۲) مجازاً [ردنا۔ گریہ (۳) [اُر] حال۔ وجد۔ دل بھرا نا (۴) رجم۔ ترس۔ ہمدردی۔ دردمندی۔ ریم دل (۵) دہات (صفت) کا پتلپن۔
 رقت آنا - رقت ہونا - (۱) محاورہ، دل بھرا نا۔ گریہ کرنا۔ حال آنا۔ وجد آنا۔
 رقت آنکھ - (ع - ف - ۱) صفت، جس پر روونا یا رجم آئے۔ رقت طاری کرنے والی بات۔
 رقت الدم - (ع - ۱) مذکر غارش۔ خون کا پتلا پڑ جانا۔
 رقت قلب - (ع - ف - ۱) صفت، دل کی نرمی۔ مہربانی۔
 رقت منی - (ف - ۱) مذکر ایک بیماری جس میں منی پتلی پڑ جاتی ہے۔
 رقت نہ روکنا - (۱) محاورہ، ردنا بند نہ ہونا۔ لگاتار روئے جانا۔
 رقص - (ع - ۱) مذکر (۱) اچھٹا۔ کودنا (۲) ناچ۔ مجرا۔ بزت۔
 رقص سہل - (ف - ۱) مذکر ذرا کیے ہوئے جانور کا پھرن۔ تڑپنا۔ لٹختہ پاؤں مارنا۔
 رقص چار پارہ - (ف - ۱) مذکر ایک قسم کا ناچ۔
 رقص کنال - (ف) ناچتے ہوئے۔
 رقص و سرود - (ف - ۱) مذکر ناچ رنگ۔ گانا بجانا۔ راگ رنگ۔
 رقصاں - (رق - ق) (ص) (ف) صفت، ناچنے والا۔ حالت رقص میں۔
 رقصا - (رق - ق) (ع - ۱) مذکر ایک صنعت تحریر جس میں ایک حرف منقوٹہ اور ایک غیر منقوٹہ ہوتا ہے۔
 رقعہ - (رق - ق) (ع - ۱) مذکر (۱) ٹکڑا۔ پرزہ (۲) دھجی۔ پیوند۔ پھینٹ (۳) چھوٹا خط۔ چھٹی (۴) وہ چھپا یا لکھا ہوا رنگین خط جو بیاہ شادی یا دیگر کسی خوشی کے موقع پر لوگوں کو بلائے کے لیے بھیجتے ہیں (۵) وہ کاغذ جو پیام نسبت کے لیے شجرہ اور حسب و نسب لکھ کر ڈھن کے گھر جاتا ہے۔ جمع: رقتات۔
 رقعہ آنا - (۱) محاورہ، نسبت کا پیغام آنا (۲) کسی تقریب کے موقع پر بلا دے کی چھی آنا۔
 رقعہ دار - (ف - ۱) مذکر چھٹی لکھنے کا کاغذ۔
 رقم - (رق - ق) (ع - ۱) مذکر (۱) رقم۔ خط۔ نوشتہ (۲) عدد۔ ہندسہ (۳) عربی کے عدد جو الفاظ کے اختصار سے بنائے گئے ہیں (۴) کل تعداد میزان (۵) مال۔ دولت۔ قیمتی چیز (۶) جواہر مرصع (۷) قسم۔ ذرا جس (۸) ڈھنگ۔ طور۔ طریقہ (۹) اندراج۔ مد (۱۰) مشرکہ جائیداد کا ایک حصہ (۱۱) مالگداری کی شرح (۱۲) چھٹی جو شہزادہ لکھے (۱۳) کشدہ کار یا دھاری دار کثیرا (۱۴) نشان۔ قیمت کا نشان (۱۵) نامک کا ایک ایجنٹ (۱۶) حساب (۱۷) [اُر] عجیب آدمی۔ ہوشیار۔ چالاک (۱۸)

ر ق

رقاب - (ر - ق) (ع - ۱) مذکر رقبہ کی جمع (۲) کینز اور غلام۔
 رقابت - (ر - ق) (ب) (ع - ۱) مذکر (۱) مخالفت۔ کشمکش۔ ہم چستی۔ ہم سرکردگی (۲) ایک مشتوق کے کسی عاشق ہونا (۳) محبت میں شرکت۔
 رقابت کی آگ - (۱) مذکر وہ مہلن جو رقابت کی دہر سے ہو۔
 رقاص - (رق - ق) (ص) (ع - ۱) مذکر ناچنے والا شخص (۲) گھٹے کا لھن (۳) پگڑی کا سرنگ۔ جمع: رقاصان۔
 رقاص فلک - (ع - ۱) مذکر زہرہ ستارہ۔
 رقاصہ - (رق - ق) (ص) (ع - ۱) مذکر ناچنے والی عورت۔ طوائف۔
 رقاصی - (رق - ق) (ص) (ع - ۱) مذکر (۱) ناچنا (۲) ناچنے کا پیشہ یا فن۔
 رقاص - (ر - ق) (ع - ۱) مذکر جمع رقعہ (۲) ایک قسم کا خط جس کو ابن مندو خوش نویس نے وضع کیا تھا۔
 رقبہ - (رق - ق) (ب) (ع - ۱) مذکر (۱) گردن (۲) غلام۔
 رقبہ - (رق - ق) (ب) (ف - ۱) مذکر (۱) بھری ہوئی زمین۔ احاطہ (۲) گاؤں کے متعلق زمین (۳) [ریاضی] وہ عدد جو عرض اور طول کو ضرب دینے سے حاصل ہو۔

رکابی۔ (رک۔ کا۔ بی) (ن۔ امش) (۱) قتالی۔ پشتری (۲) ساتی۔ پیالہ بردار (۳) گھوڑا جسے پر بڑبڑ کر کے جاہل (۴) تھار جو گھوڑے کے پہلو میں لگتی ہے (۵) ایک قسم کا روپیہ جو لکھنؤ میں راج تھا (۶) ایک قسم کا تیل جو دمشق سے آونٹوں پر آتا تھا۔
رکابی چہرہ۔ (۱) مذ۔ پوڑا۔ گول منہ۔
رکابی مذہب۔ (۱) مذ۔ ہردیگی۔ بچہ۔ طفیل۔ لالچی۔ خوشامدی۔ قتالی کا بیٹن۔ بے اصولا۔

رکابی میں جب تک بھات میرا تیرا ساتھ (امیل) ٹانڈے کا لالچ ساتھ رکھتا ہے۔ مطلب کا یا رہے۔

رکاکت۔ (رک۔ کا۔ کت) (ر۔ ا۔ امش) (۱) سستی۔ کمزوری (۲) بے عزتی (۳) کینٹی۔

رکان۔ (رک۔ کان) (ر۔ ا۔ امش) (۱) طریقہ (۲) ڈھنگ (۳) لگام۔
رکاوٹ۔ (رک۔ کا۔ وٹ) (ر۔ ا۔ امش) (۱) ٹکاؤ۔ ٹھراؤ۔ روک۔ توقف (۲) تقرض۔ مزاحمت۔

رکاؤ۔ (رک۔ کا۔ او) (ر۔ ا۔ امش) (۱) دیکھے رکاوٹ۔
رککت۔ (رک۔ کت) (ر۔ ا۔ امش) (۱) بو۔ خن (۲) سرخ رنگ (۳) صفت [رنگ دار رنگین (۴) بے حد شاق۔ فریفتہ۔

رکٹس۔ (Rickets) (رک۔ کٹ) (انگ۔ ا۔ امش) (۱) دق الاطفال۔
رکٹے کی بیماری (بچوں کی)
رک رک کر۔ (رک۔ رک) (ر۔ ا۔ امش) (۱) گھٹ گھٹ کر (۲) ٹھہر ٹھہر کر (۳) لگنت سے۔ ہسلا کر۔

رکشا۔ (رک۔ شا) (ر۔ ا۔ امش) (۱) امان۔ حفاظت۔ پناہ۔ بچگانی۔ بچاؤ۔
رکشابندھن۔ (۱) ماگھی باندھنے کی رسم (۲) تھرا جس میں ہندو لوگ اپنے ہاتھوں پر راگھی باندھتے ہیں۔

رکشاشا۔ (Rikshash) (رک۔ شا) (انگ۔ ا۔ امش) (۱) ہکی دوپاتیں پہنوں کی چھتری دار چھوٹی گاڑی۔

رکعت۔ (رک۔ عت) (ر۔ ا۔ امش) (۱) ٹھکاؤ۔ نمیدگی (۲) نماز کا ایک حصہ کھڑے ہونے سے لے کر بیٹھنے تک جس میں ایک رکوع آجائے۔ جمع۔ رکعات۔

رکمن۔ (رک۔ من) (ر۔ ا۔ امش) (۱) ستون۔ قہم۔ پیل پایہ (۲) ضروری حصہ (۳) اُتر کارندہ۔ سربراہ۔ کسی جماعت کا نمبر (۵) امیر۔ سردار (۶) (عروض) وہ لفظ جو دو یا تین اجزائے اوتاد سے بنے۔ ارکان عربی میں دس ہیں (۷) باہر کا حصہ۔ کوند۔ زادبہ۔ جمع۔ ارکان۔

رکمن الدولہ۔ (رک۔ من۔ دولہ) (ر۔ ا۔ امش) (۱) امیر۔ وزیر۔

رکمن رکمن۔ (رک۔ من۔ من) (ر۔ ا۔ امش) (۱) بڑا رکن۔ مضبوط رکن۔

رکمن سلطنت۔ (رک۔ من۔ سلطنت) (ر۔ ا۔ امش) (۱) حکومت کے امیروں وزیروں میں ایک۔

رکمن میانی۔ (رک۔ من۔ میانی) (ر۔ ا۔ امش) (۱) مذ۔ کبہ شریف کے رکنوں میں سے ایک رکن۔
رکنا۔ (رک۔ نا) (ر۔ ا۔ امش) (۱) ٹھہرنا۔ ٹھہنا (۲) سنانا۔ لگنت کرنا (۳) کشیدہ ہونا۔ ٹھہنا (۴) بازرگنا (۵) ٹھکانا۔ ٹھکانا (۶) دم لینا۔ توقف کرنا (۷) شش و پنج میں ہونا۔ پس دوپیش کرنا (۸) جمانا۔ رٹنا (۹)

رکمن۔ کسی۔ نوچی۔ جمع۔ رقوم۔
رکیم اول۔ (رک۔ امش) خدا کا تخت (رکسی (۲) کنایتہ نذر محمدی۔
رکیم پزیر۔ رقم زدہ۔ (رک۔ ف۔ صفت) لکھا ہوا۔ تحریر شدہ۔
رکیم زن۔ رقم کسب۔ رقم طراز۔ (رک۔ ن۔ صفت) لکھنے والا۔ کاتب۔ محرز
رکیم ساڑ۔ رقم سوائے۔ (رک۔ ن۔ امش) متفرق رقم۔ وہ آمدنی جو زیندار کو لگان کے علاوہ وصول ہوتی ہے۔

رکیم کاٹنا۔ (رک۔ ما۔ روپیہ کم کر دینا۔
رکیم کرنا۔ (رک۔ ما۔ روپیہ کمنا۔ تحریر کرنا۔

رکیم ماری جاننا۔ (رک۔ ما۔ روپیہ کے نقصان ہو جاننا۔
رکیم وار۔ (رک۔ ن۔ صفت) تفصیل دار۔

رکیم مشتقہ الوصول۔ وہ رقم جس کا وصول ہونا مشکوک ہے۔
رکیمیں چیرنا۔ (رک۔ ما۔ روپیہ کمانا۔ مال حاصل کرنا۔

رکمی۔ (رک۔ می) (رک۔ صفت) نشان کیا ہوا۔ لکھا ہوا۔
رکقوم۔ (رک۔ قوم) (رک۔ جمع) (۱) امش) رقم کی جمع۔ روپیہ۔

رکقیب۔ (رک۔ قیب) (رک۔ ا۔ امش) (۱) بچگان۔ پاسان۔ محافظ (۲) ہم پیشہ
تولیت (۳) ایک عاشق کے عاشقوں میں سے کوئی ایک (۴) خدا کا ایک صفاتی نام۔

رکیق۔ (رک۔ صفت) (۱) تپلا۔ لطیف (۲) نرم۔ ملائم۔
رکیق القلب۔ (رک۔ صفت) نرم دل۔ رحم دل۔ وہ شخص جس کا دل جلد بھرائے۔ ترس کھانے والا۔

رکیقہ۔ (رک۔ صفت) (۱) ٹھنڈی۔ کیز۔

رکیم۔ (رک۔ قیم) (رک۔ ا۔ امش) (۱) تحریر۔ کتاب۔ خصوصاً وہ جس میں اصحاب کتب کا نکتہ درج ہے (۲) ان کا گول یا پہاڑ (۳) غار جس میں وہ سوتے تھے۔

رکیمہ۔ (رک۔ بی) (رک۔ ا۔ امش) (۱) جمع۔ رُقمہ۔ خط۔ جمع۔ رقام۔

رک

رکاب۔ (رک۔ اب) (رک۔ ا۔ امش) (۱) وہ آہنی حلقہ جو گھوڑے کے زین میں دونوں طرف لگتا رہتا ہے اور سوار اس پر پاؤں رکھ کر گھوڑے پر چڑھتا ہے (۲) مذبا بادشاہوں کی سواری کا گھوڑا (۳) بڑی رکابی۔
(۴) قتالی (۵) طباق (۶) وہ لفظ جو درج کے دوسرے صفحے کے نیچے اور صفحہ اول کی ابتدا میں لکھا جاتا ہے۔

رکاب میں۔ (۱) ہمراہ۔ ہم رکاب۔
رکاب دار۔ (۱) گھوڑے پر چڑھانے والا نکر (۲) ماہر یا درچی (۳) وہ شخص جو چارہ چینیال مرتبہ دینے بنا کر بیچے۔

رکاب ودال۔ وہ چڑھا جس میں رکاب لگتی ہے۔
رکاب سعادت۔ بادشاہ کے گھوڑے کے ساتھ دوڑنے والا ملازم
رکاب میں پاؤں رکھنا۔ بردت چلنے کے لیے تیار رکھنا۔

رکھو اس مقولے پر دار و مدار کہ نونفعا پختے نہ تیرہ ادھار۔ دارِ مثل
جو چیز فزائل جائے وہ اس اچھی چیز سے جس کا وعدہ کیا جائے
بہتر ہے۔

رکھوالا - (رکھ - وا - لا) ۱- ۱- ۱- مذ [۱] محافظہ نگہبان۔ چوکیدار۔ نگران۔
رکھوالی - (رکھ - والی) ۱- ۱- ۱- ص [۱] محافظت۔ پاسبانی (۲) چوکیداری
کی تخریہ (۳) رکھوالا کی تائینٹ۔

رکھوالینا - (رکھ - وا - لے - نا) ۱- ۱- ۱- ص [۱] واپس لینا۔ لے لینا۔ دھروالینا۔
رکھوانا - (رکھ - وا - نا) ۱- ۱- ۱- ص [۱] رکھنا کا مستعدی المتعدی - جمع کرانا (۲)
دھرانا (۳) گرد کرانا (۴) نوکر کرانا۔

رکھونجا - (رکھ - کھوں - جا) ۱- ۱- ۱- مذ [۱] وہ دھکڑے جو مونگ یا ماش کی دھوٹی
چوٹی والی پیس کر بناتے ہیں۔ برٹیاں۔

رکھیب - (رکھ - کیب) ۱- ۱- ۱- ص [۱] سوار کے ساتھ جو دو سر سوار بیٹھے۔
رکھیبی - (رکھ - کے - بی) ۱- ۱- ۱- ص [۱] رگابی۔

رکھیک - (رکھ - کیگ) ۱- ۱- ۱- ص [۱] مسٹ (۲) دہلا پتلا۔ نازک۔
(۳) ناچیز۔ ادنیٰ (۴) نقیس۔

رکھیللا - (رکھ - کی - لا) ۱- ۱- ۱- ص [۱] بذات مرد۔
رکھیلین - (رکھ - کی - لے) ۱- ۱- ۱- ص [۱] سنجیدہ۔ متین (۲) استوار۔ محکم مضبوط۔

رگ

رگ - (رگ - ا - مش) [۱] ۱- ۱- ۱- ص [۱] جس کی وہ نلیاں جن میں خون
رہتا ہے (۲) ڈار [پختا - محصب (۳) پھول یا پتے کا ریشہ (۴)
آکھ کا ڈورا (۵) اصل۔ نسل۔ ذات (۶) تار۔ تاگا۔ دھاگہ (۷) بند۔ ڈھیل
رگ ابرو - (رگ - ا - مش) ۱- ۱- ۱- ص [۱] بادل کی سیاہ دھاری۔

رگ اترنا - (رگ - ا - ترنا) ۱- ۱- ۱- ص [۱] ضد اترنا (۲) غصہ جاتا رہنا (۳) آنت کا
فٹے میں اتر آنا۔

رگ بانا - (رگ - ا - بانا) ۱- ۱- ۱- ص [۱] اصل بات معلوم کرنا۔
رگ پھٹنے سے واقف ہونا - (رگ - ا - بانا) ۱- ۱- ۱- ص [۱] اصلیت سے واقف ہونا۔
ذات بنیا سے واقف ہونا۔

رگ پھیرنا - (رگ - ا - بانا) ۱- ۱- ۱- ص [۱] ہاتھ ٹھکانا۔ کسی ہونے والے امر سے آگاہ ہونا۔
شدنی امر سے واقف ہونا۔

رگ پھولنا - (رگ - ا - بانا) ۱- ۱- ۱- ص [۱] بوش خون سے رگ کاموٹا ہونا۔
رگ جال - (رگ - ا - بانا) ۱- ۱- ۱- ص [۱] وہ بڑی رگ جس سے تمام رگوں میں
خون پہنچتا ہے۔

رگ جبال سے نزدیک ہونا - (رگ - ا - بانا) ۱- ۱- ۱- ص [۱] (مندان کی تعریف ہے)
بہت قریب ہونا۔

رگ جڑھ جانا - (رگ - ا - بانا) ۱- ۱- ۱- ص [۱] کسی رگ کا اپنی جگہ سے ہٹ جانا۔ بند
رکنا۔ کوئی بڑی عادت ہونا۔

رگ جڑھ گئی - (رگ - ا - بانا) ۱- ۱- ۱- ص [۱] غصے میں بھرے ہوئے ہیں۔ مانتے نہیں۔

معمور ہونا - پڑ ہونا (۱) بند ہونا۔ مسدود ہونا (۱) حیض نہ آنا (۱۲) جماع
نکرنا (۱۳) جھکنا۔ بھگنا۔ بھگنا۔ بھگنا (۱۴) ملنے یا بیٹنے سے رہ جانا (۱۵)
بیچ دقاب کھانا (۱۶) خفا ہونا۔ ترک طاقات کرنا۔ اعراض کرنا۔

رگنیت - (رگ - بنی - نیت) ۱- ۱- ۱- ص [۱] منٹ [رگن ہونا۔ مبری۔
رگوانا۔ رگوانا - (رگ - وا - نا) ۱- ۱- ۱- ص [۱] رگنا کا مستعدی المتعدی۔

رگوب - (رگ - کو ب) ۱- ۱- ۱- ص [۱] سوار (۲) سواری کا اونٹ۔
رگوع - (رگ - ا - ع) ۱- ۱- ۱- مذ [۱] نماز میں گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر جھکنا۔ جھکاؤ۔

رگہ - (رگ - ہ - ا) ۱- ۱- ۱- مذ [۱] جنگل۔ وہ جنگل جس میں سے عوام کو گھاس یا کھلے کاٹنے
کی ممانعت ہو (۲) رکھنا مصدر کا صیغہ امر۔

رگہ پت - رکھنا پت - (رگہ - پت) ۱- ۱- ۱- ص [۱] دوسروں کی عزت کو اپنی عزت کروا
رکھ چھوڑنا - (رگہ - پت) ۱- ۱- ۱- ص [۱] جمع رکھنا (۲) نہ دینا۔ دبا لینا۔

رگہ دینا - (رگہ - دینا) ۱- ۱- ۱- ص [۱] کسی جگہ کوئی چیز رکھ دینا (۲) لانا۔ ہتھیار ڈال دینا۔
رگہ رکھاؤ - (رگہ - رکھاؤ) ۱- ۱- ۱- ص [۱] تکلف۔ خاطر داری۔ دیکھ بھال۔

رگہ - (رگہ - ہ - ا) ۱- ۱- ۱- ص [۱] رکھنا کا مختلف۔ درخت۔
رکھا رکھا یا - (رگہ - رکھا یا) ۱- ۱- ۱- ص [۱] رکھا ہوا (۲) باسی۔

رگھانی - (رگھانی - بی - رکھانی) ۱- ۱- ۱- ص [۱] مسٹ [بڑھنی کا
ایک اوزار۔ برما۔

رگھاوت - (رگھانی - وت) ۱- ۱- ۱- ص [۱] مسٹ [رکھاپن۔ بے مردتی۔
رکھا ہونا - (رگھانی - وت) ۱- ۱- ۱- ص [۱] کچھ موجود ہونا۔ طاقت ہونا (۲) قائم ہونا (۳)
باقی رہنا۔

رکھاؤ - (رگھانی - وت) ۱- ۱- ۱- ص [۱] رکھی ہوئی عورت - ملازمہ۔ لوٹھی۔
رکھانی - (رگھانی - ای) ۱- ۱- ۱- ص [۱] مسٹ [رکھاپن۔ بے اتفاق - بد اخلاقی
(۲) بے وفائی۔ بے مردتی - اعراض - انکار۔

رکھانی کی لینا - (رگھانی - ای) ۱- ۱- ۱- ص [۱] بد مزاجی ظاہر کرنا۔ بے پردائی کرنا۔
رکھیب - (رگھانی - ای) ۱- ۱- ۱- ص [۱] مسٹ [رکھاپن۔ بے مردتی۔
رکھتی - (رگھانی - تی) ۱- ۱- ۱- ص [۱] مسٹ [رکھاپن۔ بے مردتی۔
رکھتی - (رگھانی - تی) ۱- ۱- ۱- ص [۱] مسٹ [رکھاپن۔ بے مردتی۔

رکھیب - (رگھانی - ای) ۱- ۱- ۱- ص [۱] مسٹ [رکھاپن۔ بے مردتی۔
رکھتی - (رگھانی - تی) ۱- ۱- ۱- ص [۱] مسٹ [رکھاپن۔ بے مردتی۔
رکھتی - (رگھانی - تی) ۱- ۱- ۱- ص [۱] مسٹ [رکھاپن۔ بے مردتی۔

رکھتی - (رگھانی - تی) ۱- ۱- ۱- ص [۱] مسٹ [رکھاپن۔ بے مردتی۔
رکھتی - (رگھانی - تی) ۱- ۱- ۱- ص [۱] مسٹ [رکھاپن۔ بے مردتی۔
رکھتی - (رگھانی - تی) ۱- ۱- ۱- ص [۱] مسٹ [رکھاپن۔ بے مردتی۔

رکھتی - (رگھانی - تی) ۱- ۱- ۱- ص [۱] مسٹ [رکھاپن۔ بے مردتی۔
رکھتی - (رگھانی - تی) ۱- ۱- ۱- ص [۱] مسٹ [رکھاپن۔ بے مردتی۔
رکھتی - (رگھانی - تی) ۱- ۱- ۱- ص [۱] مسٹ [رکھاپن۔ بے مردتی۔

رکھتی - (رگھانی - تی) ۱- ۱- ۱- ص [۱] مسٹ [رکھاپن۔ بے مردتی۔
رکھتی - (رگھانی - تی) ۱- ۱- ۱- ص [۱] مسٹ [رکھاپن۔ بے مردتی۔
رکھتی - (رگھانی - تی) ۱- ۱- ۱- ص [۱] مسٹ [رکھاپن۔ بے مردتی۔

رکھتی - (رگھانی - تی) ۱- ۱- ۱- ص [۱] مسٹ [رکھاپن۔ بے مردتی۔
رکھتی - (رگھانی - تی) ۱- ۱- ۱- ص [۱] مسٹ [رکھاپن۔ بے مردتی۔
رکھتی - (رگھانی - تی) ۱- ۱- ۱- ص [۱] مسٹ [رکھاپن۔ بے مردتی۔

رکھتی - (رگھانی - تی) ۱- ۱- ۱- ص [۱] مسٹ [رکھاپن۔ بے مردتی۔
رکھتی - (رگھانی - تی) ۱- ۱- ۱- ص [۱] مسٹ [رکھاپن۔ بے مردتی۔
رکھتی - (رگھانی - تی) ۱- ۱- ۱- ص [۱] مسٹ [رکھاپن۔ بے مردتی۔

رکھتی - (رگھانی - تی) ۱- ۱- ۱- ص [۱] مسٹ [رکھاپن۔ بے مردتی۔
رکھتی - (رگھانی - تی) ۱- ۱- ۱- ص [۱] مسٹ [رکھاپن۔ بے مردتی۔
رکھتی - (رگھانی - تی) ۱- ۱- ۱- ص [۱] مسٹ [رکھاپن۔ بے مردتی۔

رکھتی - (رگھانی - تی) ۱- ۱- ۱- ص [۱] مسٹ [رکھاپن۔ بے مردتی۔
رکھتی - (رگھانی - تی) ۱- ۱- ۱- ص [۱] مسٹ [رکھاپن۔ بے مردتی۔
رکھتی - (رگھانی - تی) ۱- ۱- ۱- ص [۱] مسٹ [رکھاپن۔ بے مردتی۔

رگ حیمت - (ن - ا۔ مٹ) حیرت یا حیمت کا جوش۔
 رگ دار - (ن - صفت) (۱) ریشے دار (۲) جری عادت والا (۳) کپڑا جس میں بعض ریشے بھرے ہوئے ہوں۔
 رگ دینا - (۱- محاورہ) (۱) ڈرنا (۲) قابو میں ہونا۔
 رگ رگ سے واقف ہونا - (۱- محاورہ) پوری طرح جاننا۔
 رگ رگ میں - (۱) ہر رگ میں - دگوں میں - ہر جگہ بدن میں۔
 رگ رگ میں کوٹ کر بھرا ہونا - (۱- محاورہ) کسی صفت کا کسی میں کامل طور پر ہونا۔
 رگ زن - (ن - ۱- مذ) فصد کھولنے والا۔
 رگ طنبور - (ن - ا۔ مٹ) طنبور کے تار۔
 رگ کا منہ کھل جانا - (۱- محاورہ) فصد کھولنے پر جو حد سے زیادہ خون آئے تو کہتے ہیں۔
 رگ کھڑی ہونا - (۱- محاورہ) رگ پر دم اُٹھانا۔
 رگ گردن - (ن - ا۔ مٹ) رگ جان - شاہ رگ (کنایت) عزور سرکش۔
 رگ وپے - (ن - ۱- مذ) رگ - پٹھا۔
 رگ وپے میں دوڑ جانا - (۱- محاورہ) اڑ کرنا - مسریت کرنا۔
 رگ وریشہ - (ن - ۱- مذ) (۱) اصل - نسل (۲) خُو بُو (۳) بیاد (۴) رگ پٹھا گوشت پرست۔
 رگ وریشہ میں پڑا ہونا - (۱- محاورہ) کسی بڑی خصلت کا کسی آدمی میں بہت زیادہ ہونا۔ گوشت و پوست میں شامل ہونا - اصل میں ہونا - غمٹی میں پڑنا۔
 رگ وریشے میں شرارت بھری ہونا - (۱- محاورہ) بے حد شریر ہونا۔
 رگوں میں خون دوڑنا - (۱- محاورہ) خون کا نسوں میں تیزی سے حرکت کرنا۔
 رگ وید - (س - ۱- مذ) ہندوؤں کی چار مذہبی کتابوں میں سے ایک جو سب سے اقل اور اہم ہے۔
 رگیں مرنا - (۱- محاورہ) رگوں کی قوت جاتی رہنا (۲) نامرد ہو جانا۔ کمزور ہو جانا۔
 رگیں نکل آنا - (۱- محاورہ) بہت ڈبلا ہونا۔
 رگی - (Rugby) (رگ - پل) (۱) ٹانگ - (۱- مذ) فٹ بال کی ایک قسم جس میں کھلاڑی ہاتھ کو بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اس کھلاڑی کو بھی پکڑ سکتے ہیں جو گیند لے جا رہا ہو۔ ہارجیت کا فیصلہ نمبروں سے ہوتا ہے۔
 رگڑ - (ر - گڑ) (۱- مٹ) (۱) نشان جو دو چیزوں کے ٹکرائے یا آپس میں گنے سے ہو جاتا ہے۔ گھاؤ (۲) خفیت زخم جس میں گوشت نہ گئے (۳) (کہاروں کی اصطلاح) پہلو میں رگڑ گنے والی کوئی چیز (۴) ڈھول کا جلد جلد ہونا۔
 رگڑا دینا - (۱- محاورہ) جھنگ گھوٹنا۔ کسی چیز کو دوسری چیز پر رگڑنا۔
 رگڑ دینا - (۱- محاورہ) گس دینا۔
 رگڑ رگڑ کر - (۱- مٹ) (۱) تھمتھمتھ نکلنے کا عمل کے۔

رگڑ کھانا - رگڑ لگنا - (۱- محاورہ) گھٹا لگنا۔ رگڑ لگنا۔
 رگڑا - (رگ - ۱) (۱- مذ) (۱) خراش (۲) پینا (۳) چکانا (۴) جھکڑا - (۵) نشان جو دو پتنگوں کے لڑنے سے دوڑ پر ہو جاتا ہے۔
 (۶) بیٹنگ گھوٹنا (۷) ایک قسم کا سرسیر یا لب آٹھوں کے لیے۔
 رگڑا جھکڑا - (۱- مذ) فنا - بھٹ - (۲) جھکڑا - بھکڑا۔
 رگڑنا - (ر - گڑنا) (۱- مٹ) (۱) گھنا (۲) پینا (۳) گھوٹنا (۴) بائنا - صاف کرنا (۵) جھیلنا - رندہ کرنا (۶) ستانا - حیران کرنا - کھال کھینچنا (۷) حرکت دینا۔
 رگڑنا - (۱- مٹ) (۱) گھنا - تعلق رکھنا (۲) عاشق ہونا۔
 رگڑنا - (رگڑنا - مٹ) (۱) شستگی (۲) کجی - طیوہ (۳) بیماری۔
 رگڑ - (ر - مٹ) (۱) مرض - مائڈلی۔
 رگھو - (رگھو) (س - صفت) (۱) تیز - چڑتیللا - تیز رفتار (۲) ہلکا - خفیف۔
 چھھورا - بے دانا (۳) (مذ) تیز گھوڑا - گھوڑ دوڑ کا گھوڑا۔
 رگید - (ر - گید) (۱- مٹ) (۱) بیجا - تعاقب۔
 رگید رگاد کر - تعاقب کر کے - گھر گھار کر - مار پیٹ کر۔
 رگیدنا - (رگیدنا) (۱- مٹ) (۱) بیجا کرنا - تعاقب کرنا - گھر کر بھگانا۔
 رگیل - (رگیل) (۱- مذ) (۱) وہ نوبت جو دانہ کھا کر اڑ جاتا ہے (۲) ہرجائی آدمی (۳) فضول چیز۔
 رگیلا - (۱- مذ) (۱) شہر - وہ کپڑا جس کا تانا بانا اُٹھرا ہوا ہو۔ موٹی رگوں کا بان - صاف نہ کیا ہوا گوشت۔

ر ل

رلا - (۱- مذ) (۱) آمیزش - ملاؤ (۲) جھیلنا - بکھیرا (۳) بھول - معالطہ۔
 رلا رٹنا - (۱- محاورہ) معالطہ پڑنا - حساب میں بھول پڑنا - بکھیرا ڈانا۔
 رلا ڈالنا - (۱- محاورہ) (۱) معالطہ ڈالنا - جھکا ڈالنا (۲) آمیزش کرنا۔
 رلا ملا - (ن - ۱- مذ) ملا جلا - خلط عطا۔
 رلے ملے پنچوں رہ بیٹے - جہان جائے پر سچ نہ کہیے - (۱- مٹ) پنچایت کے ساتھ اتفاق رکھنا چاہیے۔ چاہے جھوٹ ہی ہونا پڑے۔
 رل - (رلا - ۱- مذ) زمین جو اس غرض سے سال دو سال کاشت نہ کی جائے کہ اس میں طاقت آجائے۔
 رلانا - (ر - لانا) (۱- مٹ) (۱) آمیزش کرنا شامل کرنا۔ گڑ بڑ کرنا۔
 رلانا - (ر - لانا) (۱- مٹ) (۱) رونا کا معنی - تنگ کرنا - صدمہ پہنچانا۔
 رل کرنا۔
 رل مل جانا - (۱- مٹ) (۱) غلط ہو جانا (۲) اتحاد ہونا - گھل مل جانا۔
 رلنا - (رل - نا) (۱- مٹ) (۱) پنا - آمیز ہونا (۲) شامل ہونا (۳) سازش ہونا (۴) گڈ بڑ ہونا۔
 رلنا - (رل - نا) (۱- مٹ) (۱) تباہ ہونا (۲) ہموار ہونا (۳) زندہ پھرنا۔ (۴) بھگنا (۵) آوارہ ہو جانا (۶) کھو جانا۔

زلیاں - زل (یاں) (ق. ۱-مٹ) خوشی (اب رنگ کے ساتھ بطور لائق استعمال ہوتا ہے۔

رزم

رزم - (Rum) (رنگ ۱-مٹ) گڑکی شرب۔
 رزم - (ن ۱-مذ) (۱) ڈر - خوف - دہشت (۲) وحشت - نفرت (۳) گردبز - بھاگنا (۴) چھینا۔
 رزم بھول جانا - (۱-محاورہ) چرکڑھی بھول جانا۔ گھبر جانا۔ شش و پنج میں پڑ جانا۔
 رزم خوردہ - رزم ویدہ - رزم زدہ - رزم کردہ - (صفت مفعول) بھاگا ہوا۔
 وحشت زدہ۔

رزم کرنا - بھاگ جانا۔ دوڑ جانا۔
 رزم - (انگریزی ریم (Ream) کا محاورہ - ۱-مذ) کاغذوں کے بیس دستوں کا بندل۔

ریم - (Rim) (رنگ - مذ) پیتے کا حلقہ یا گھیرا۔ خاص طور پر سائیکل کا پیتا۔ جس پر ٹائر اور ٹیوب پڑھاتے ہیں۔
 رما - (س ۱-مٹ) (۱) بیوی (۲) مشوقہ (۳) تکشی کا ایک نام (۴) خوش نصیبی - اقبال (۵) دولت مندی - امارت - شان و شوکت - (۶) کالمک بڈی کی گیارھویں تاریخ۔
 رماؤ - (ن ۱-مٹ) راکھ - خاکستر۔
 رماز - (رزم - مان) (ع ۱-مذ) وہ شخص جو اشاروں سے یا خفیہ طور پر گفتگو کرے (۲) پہلیاں کہنے والا شخص۔

رمتال - (رزم - مال) (ع ۱-مذ) علم رمل کا ماہر - جوتشی - جوتی۔
 رمالی - (رزم - مالی) (ع ۱-مٹ) رمل - نجوم - جوتش۔
 رمان - (رزم - مان) (ع ۱-مذ) انار۔
 رمانا - (رزم - مان) (ع ۱-مذ) پھرانا۔ گھٹانا (۲) دل بہلانا۔ بات چیت میں لگانا (۳) جوگ - اختیار کرنا (۴) آگ جلانا جوگی کا (۵) رچانا۔
 رمانی - (ع ۱-مٹ) انار کے رنگ کا - انار سے منسوب۔

رزمیا - (رزم - با) (ع ۱-مذ) گھڑیا۔
 رزمبھانا - (رزم - بھانا) (ع ۱-مذ) بھانے کا لونا۔ بھینس کا ڈرانا۔
 رزمنا - (رزم - نا) (ع ۱-مذ) چڑا پھیلنے کا آلہ۔
 رزمپتی - (رزم - پتی) (ع ۱-مٹ) رسی کی تصنیف چڑا ترانے کا چھوٹا آکر۔
 رزمنا - (رزم - تبا) (ع ۱-مٹ) چلنا پھرتا۔ گھومنے والا - ادارہ۔
 رزمنا جوگی - (رزم - جوگی) (ع ۱-مذ) پھرتا پھرتا جوگی - سیاح - درویش۔
 رزم جھم - (ع ۱-مٹ) بارش کی خفیف آواز۔

رزم جھمیلنا - (رزم - جھمیلنا) (ع ۱-مذ) آہستہ آہستہ جھمیلنا۔
 رزمچیرا - (رزم - چیرا) (ع ۱-مذ) (۱) غلام - نوکر۔
 رزمند - (ع ۱-مذ) ایک بیماری جس سے آنکھیں سرخ رہتی ہیں۔

رمد و پھسوا - (رزم - دو - پھٹ - ٹو) (ع ۱-مذ) ابر سے غیر سے ٹھنڈی خیرے۔
 عام لوگ - خلقت۔

رزمز - (ع ۱-مٹ) (۱) آنکھوں - بھوؤں یا ہونٹوں کا اشارہ - غمزہ - عشوہ (۲) ایما - اشارہ (۳) ڈار - ممتا - پیہلی - بیچ دار بات (۴) بھید - راز (۵) نکتہ - باریکی (۶) لوگ بھونگ (۷) طعنہ ہنس (۸) علامت - نشان (۹) بات - معاملہ (۱۰) پوشیدہ بات - مخفی بات۔
 (۱۱) ذومعنی بات - پہلو دار بات (۱۲) بات کی جڑ - مہنوم - مُراد - جمع - رُموز۔

رزمز آمیز - (ن ۱-مٹ) اشارے کنائے سے - طنزیہ کلام۔
 رزمز پیمان جانا - (۱-محاورہ) اصل نشان معلوم کر لینا۔ بات تازہ جانا۔
 رزمز پھینکنا - رزمز مارنا - (۱-محاورہ) (۱) اشارہ کنایہ کرنا (۲) آواز توارہ کننا (۳) طعنے دینا۔

رزمز شناس - (ن ۱-مٹ) اشارہ پہچاننے والا۔
 رزمز کی باتیں - رزمز کی گھاتیں - (ن ۱-مٹ) (۱) بھید کی باتیں (۲) اشارے کنائے کی باتیں (۳) طعنے ہسنے (۴) نکتے کی باتیں۔
 رزمضان - (رزم - ضان) (ع ۱-مذ) (۱) اجلانے والا (۲) مسلمانوں کا نواں قریب ہینہ - ماہ صیام - وہ ہینہ جس میں اہل اسلام روزے رکھتے ہیں۔
 رزمضان کے نمازی - چند روزہ نمازی۔

رزمضان کے نمازی تحرم کے سپاہی - (مٹ) ظاہر دار کی نسبت برتے ہیں۔
 رزمضانی - (رزم - ضانی) (۱) اور صفت (۲) ماہ رمضان کا (۳) رمضان کے متعلق (۴) روزوں کا یان کے متعلق (۵) جو رمضان میں پیدا ہوا ہو۔
 رزمق - (رزمق - ع ۱-مٹ) (۱) تھوڑی سی جان - رہی سہی جان - اخیر سانس (۲) ذرا سا (۳) چاشنی کا کچھ اڑ۔

رزل - (ع ۱-مذ) (۱) ایک علم کا نام جس میں ہندسوں اور خطوط وغیرہ کے ذریعے حجب کی بات دریافت کرتے ہیں - نجوم - جوتش۔
 جمع : رتال۔

رزل - (ع ۱-مٹ) (۱) علم عرض کی ایک بحر کا نام۔
 رزما - (رزم - نا) (ع ۱-مذ) (۱) معص - (۲) د - (۳) راہ پھرنا۔ گھومنا (۴) سنانا (۵) بھٹکانا۔
 (۶) رہ پڑنا (۷) چراگاہ - سرخز - نیزہ زار (۸) شکار گاہ۔
 رزموز - (رزموز - ع ۱-مٹ) (۱) رزمز کی جمع - اشارہ - راز - بھید۔

رزموز عاشقان عاشق بداندند - (نیش) ہمیشہ ہی بات کو خوب سمجھتے ہیں۔
 رزموز مملکت خویش خسرواں دانند - (نیش) ملک کی بہتری کے راز وہ بادشاہ ہی سمجھتے ہیں۔

رزموزیں چھانٹنا - (۱-محاورہ) لوگ بھونگ کی باتیں کرنا۔
 رزمز - (رزم - زت) (ع ۱-مذ) (۱) گلہ - جھنڈ - گروہ (۲) جماعت۔
 فوج - بیٹ۔

رزمی - (رزمی - ع ۱-مذ) کوئی چیز پھینکنا۔
 رزمی بالغیب - (ع ۱-محاورہ) مشکل پتہ کوئی بات کہنا۔
 رزمی حمار - (ع ۱-مٹ) گھڑیاں پھینکنا (عاجی منا میں بیچ کر ایک مقام پر گھڑیاں مارتے ہیں اس کو رزمی حمار کہتے ہیں)۔

رہی۔ (1) انگ۔ (2) مسٹ [تاش کا ایک کھیل۔

رُہیدگی۔ (رہی۔ 3) گی۔ (4) ف۔ (5) مسٹ [(1) بھاگ (2) دشت (3) تنفر۔
رُہیدہ۔ (رہی۔ 4) ف۔ (5) مسٹ [(1) نرم کیے ہوئے۔ بھاگا ہوا (2) دشتی۔
رُہیم۔ (رہیم) (ع۔ صفت) گلی ہوئی۔ بوسیدہ۔ کہنہ۔ بیخ ارنام۔

ر-ن

رَن۔ (ر۔ 1) (ن۔ 2) (ا۔ 3) لڑائی۔ جنگ۔ رزم۔ کارزار۔ معرکہ۔ کھیت (2) میدان
جنگ۔ رزم گاہ۔ میدان کارزار۔ مقتل (3) (2) (1)۔ (ن۔ 1)۔ (ن۔ 2) جنگل۔
بیابان۔

رَن بَن۔ (ن۔ 1)۔ (ن۔ 2) جنگل بیابان۔

رَن بھومی۔ (ن۔ 1)۔ (ن۔ 2) میدان جنگ۔

رَن پر چڑھنا۔ (ن۔ 1)۔ (ن۔ 2) جنگ کے لیے جانا (2) جنگ کرنا۔ (ن۔ 2)۔
رَن پر لڑنا۔ (ن۔ 1)۔ (ن۔ 2) جنگ ہونا۔ لڑائی ہونا (2) بہت سے آدمیوں
کا مارا جانا۔

رَن جیت (رُنجیت)۔ (ن۔ 1)۔ (ن۔ 2) فتح۔ جنگ جیتنے والا۔

رَن دھیر (رُندھیر)۔ (ن۔ 1)۔ (ن۔ 2) ثابت قدم۔ باحوصلہ۔ مستقل مزاج۔

رَن کا کھیت۔ میدان جنگ۔

رَن کی فکر نہ دھن کی چوٹ۔ یہ دھم دھو سر کا موٹ۔ (ن۔ 1)۔ (ن۔ 2)۔
یہ ٹھکر موٹا آدمی۔

رَن لڑکھ۔ (ن۔ 1)۔ (ن۔ 2) لڑائی کا قلعہ۔ وہ جگہ جس کے گرد روپے بنائے جائیں۔

رَن لکھن۔ (ن۔ 1)۔ (ن۔ 2) قتل عام۔

رَن ہتاب۔ (ن۔ 1)۔ (ن۔ 2) روشنی کا گولا جو میدان جنگ میں روشنی کے لیے
رات کو چھوڑتے ہیں۔

رَن ہلا دینا۔ (ن۔ 1)۔ (ن۔ 2) میدان جنگ میں لڑنے پیدا کرنا۔

رَن۔ (Run) (ن۔ 1)۔ (ن۔ 2) دوڑ۔ چھٹ (2) کرکٹ کے کھیل میں
ایک وکٹ سے دوسرے وکٹ تک کی دوڑ۔

رَن آؤٹ۔ (Runout) کھلاڑی کا ایک وکٹ سے دوسری
وکٹ تک دوڑتے ہوئے آؤٹ ہو جانا۔

رَنج۔ (ن۔ 1)۔ (ن۔ 2) (1) حقہ۔ غضب۔ گردودھ (2) ڈکھ۔ درد۔ بیماری (3) غم
لال۔ اندھ (4) انوس پتیاوا۔

رَنج آنا۔ (ن۔ 1)۔ (ن۔ 2) طال ہونا۔

رَنج اٹھانا۔ (ن۔ 1)۔ (ن۔ 2) صدمہ برداشت کرنا۔

رَنج بھولنا۔ (ن۔ 1)۔ (ن۔ 2) صدمہ۔ لال اور تکلیف کا دل سے محو ہونا۔

رَنج پہنچانا۔ (ن۔ 1)۔ (ن۔ 2) اذیت دینا۔ طول کرنا۔

رَنج دینا۔ (ن۔ 1)۔ (ن۔ 2) آزدہ کرنا۔ ستانا۔ بیزا کرنا۔

رَنج سہنا۔ (ن۔ 1)۔ (ن۔ 2) برداشت کرنا۔

رَنج سے چھوٹنا۔ (ن۔ 1)۔ (ن۔ 2) غم اور انوس سے نجات پانا۔

رَنج کرنا۔ (ن۔ 1)۔ (ن۔ 2) غم کرنا۔ انوس کرنا۔ کڑھنا۔

رَنج کھینا۔ رَنج کھینچنا۔ رَنج لینا۔ (ن۔ 1)۔ (ن۔ 2) رَنج اٹھانا۔ صدمہ
برداشت کرنا۔

رَنج مٹنا۔ (ن۔ 1)۔ (ن۔ 2) تکلیف دوز ہونا۔

رَنج مول لینا۔ (ن۔ 1)۔ (ن۔ 2) اپنے سر کوئی ڈکھ لینا۔ خواہ مخواہ تکلیف اٹھانا۔

رَنج دُشن۔ (ن۔ 1)۔ (ن۔ 2) ڈکھ۔ درد۔ تکلیف۔ مصیبت۔

رَنجش۔ (ن۔ 1)۔ (ن۔ 2) (1) مسٹ [(2) غم (3) آزدگی۔ بگاڑ۔ اُن بنی
رَنجشی۔ (رَنجش) (ن۔ 1)۔ (ن۔ 2) مسٹ [سنٹی۔ بُرا وقت۔

رَنجک۔ (رَن۔ 1)۔ (ن۔ 2) (1) مسٹ [(2) بارود جو بندوق یا توپ کے پیالے
میں آگ دینے کے لیے رکھی جاتی ہے (2) تحریک۔ اغوا (3)

پورن۔ سفوف۔

رَنجک اڑانا۔ (ن۔ 1)۔ (ن۔ 2) بندوق یا توپ کے پیالے کی بارود میں آگ

لگانا (2) ہتی لگانا۔ نقلہ دینا (3) چکانا (4) گز اڑانا۔ پھسکی لگانا۔

رَنجک پلانا۔ رَنجک ڈالنا۔ رَنجک رکھنا۔ (ن۔ 1)۔ (ن۔ 2) بندوق یا توپ

کے پیالے میں بارود رکھنا۔

رَنجک چاٹ جانا۔ (ن۔ 1)۔ (ن۔ 2) توپ یا بندوق کا سر نہ ہونا (2) رَنجک

کا دھواں دے کر رہ جانا۔

رَنجک دان۔ (ن۔ 1)۔ (ن۔ 2) رَنجک رکھنے کا پیالہ۔

رَنجش۔ (رَن۔ 1)۔ (ن۔ 2) بڑا مشکل۔

رَنجشور۔ (رَن۔ 1)۔ (ن۔ 2) (1) اصل میں رَنج ور تھا۔ جیم کو پیش دے کر

واڈ ساکن کر دیا (2) بیمار۔ افسردہ۔ مغموم۔

رَنجشوری۔ (رَن۔ 1)۔ (ن۔ 2) (1) مسٹ [بیماری۔ روگ۔ مصیبت۔ تکلیف۔

رَنجش۔ (رَن۔ 1)۔ (ن۔ 2) (1) رَنجشور۔ مغموم (2) (3) رَنجشور

کی جمال یا طرز۔

رَنجشورگی۔ (رَن۔ 1)۔ (ن۔ 2) (1) مسٹ [رَنجش۔ لال۔

رَنجشور۔ (رَن۔ 1)۔ (ن۔ 2) (1) مسٹ [رَنجشور۔ لال۔

افسردہ۔

رَنجشور خاطر۔ (ن۔ 1)۔ (ن۔ 2) ناخوش۔ ڈکھی۔ ناراض۔ افسردہ۔ اُراس۔

رَنجشور۔ (ن۔ 1)۔ (ن۔ 2) دیوار قلعہ یا شہر پناہ کے وہ موکے جو قلعہ پر اندر سے

بند تھیں چلانے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔

رَنجشور۔ (ن۔ 1)۔ (ن۔ 2) (1) آواز۔ بے قید شخص (2) جس شخص کا ظاہر خراب باطن

اچھا ہو (3) شرابی (4) صوفی (5) عیاش (6) آوارہ (7) (8)

جو شیار۔ چالاک۔

رَنجشور۔ (ن۔ 1)۔ (ن۔ 2) (1) آواز (2) آواز (3) آواز (4) آواز (5) آواز (6) آواز (7) آواز (8) آواز

رَنجشور۔ (ن۔ 1)۔ (ن۔ 2) (1) آواز (2) آواز (3) آواز (4) آواز (5) آواز (6) آواز (7) آواز (8) آواز

رَنجشور۔ (ن۔ 1)۔ (ن۔ 2) (1) آواز (2) آواز (3) آواز (4) آواز (5) آواز (6) آواز (7) آواز (8) آواز

آزادانہ (2) آواز۔

رَنجشور۔ (ن۔ 1)۔ (ن۔ 2) (1) آواز (2) آواز (3) آواز (4) آواز (5) آواز (6) آواز (7) آواز (8) آواز

رَنجشور۔ (ن۔ 1)۔ (ن۔ 2) (1) آواز (2) آواز (3) آواز (4) آواز (5) آواز (6) آواز (7) آواز (8) آواز

(4) مغلین ہونا (5) گھرا۔ چھا جانا۔

رُندہ - (زن - دہ) - (ف - ا) - مذ کلزی پھینے اور صاف کرنے کا اوزار۔

رُندہ پھیرنا - (ا - محاورہ) کلزی پھیلنا یا صاف کرنا۔

رُندھنا - (رُندہ - تا) - (دہ - مص) [ا] پکنا، کھانا تیار ہونا۔

رُندی - (بن - دی) - (ف - ا) - (مٹ) رُندوں کا کام - مستی - کیف - بے خودی۔

رُند - (دہ - ا) - (ذ) رُند کا درخت (۲) (مٹ) [ا] رُند کا تخت۔

رُندا - (دہ - ا) - (مٹ) وہ مرد جس کی بیوی مرگئی ہو۔

رُندا یا - (زن - ذ) - (با) - (دہ - ا) - (مذ) بیوہ ہونے کا زمانہ۔

رُندا پا کاشنا - رُندا پا کاشنا - (ا - محاورہ) بیوگی کا زمانہ بسر ہونا۔

رُندا وا - (رُند - وا) - (دہ - ا) - (ذ) وہ مرد جس کی بیوی مرگئی ہو (صفت) کام چور۔

سُست - کاہل۔

رُندا واصل جی کا جھلا یا - (ایش) پست ہمت اور کام چور ذکر سے

طبیعت کو سوشلی ہوتی ہے۔

رُندی - (زن - ڈی) - (دہ - ا) - (مٹ) [ا] عورت (۲) کہی - زن بازاری - رقاصہ۔

رُندی باز - (ن - صفت) عیاش - تماش میں۔

رُندی پیسے کی آشنا ہے - رُندی پیسے ہی کی یار ہے - (ایش) [ا]

کسیاں تیر آدمی کے ساتھ تعلق پیدا کرتی ہیں - غریب ہو جائے تو

زھتا بناتی ہیں۔

رُندی تیرا یا مر گیا - کہا کونسی گلی کا؟ (ایش) رُندیوں کے بہت سے

یار ہوتے ہیں - ایک پر پابند نہیں رہتیں۔

رُندی کا جو بن رکابی میں - (ایش) جو خرچ کرے لطف اڑائے۔

رُندی کا یار سدا خوار - (ایش) رُندی کا آشنا ہمیشہ مجلس رہتا ہے۔

رُندی کس کی جو رو اور بھر واکس کا سالہ - (ایش) رُندیوں اور بھروں

کا کوئی اعتبار نہیں۔

رُندی کی کمانی یا کھائے ڈھاڑی یا کھائے گاڑی - (ایش) رُندی

کی کمانی سانپھے اور گاڑی بان کھاتے ہیں۔

رُندی کے گھر مانڈے اور عاشقوں کے گھر کڑا کے - (ایش) چونکہ

وہ اپنا روپیہ رُندیوں کو دے آتے ہیں۔ وہ مزے اڑاتی ہیں اور ان کے

گھر ناقہ ہوتا ہے۔

رُندی مانیچے روپیہ لے لے میری مینا - پھرتا مانچے پیسے حل بے سالے

کیسا - (ایش) عیاشی پر خرچ کرتا ہے۔ نیک کام پر خرچ کرنے سے

گھبراتا ہے۔

رُندیوں کی خرچی اور وکیلوں کا خرچہ پیشگی دیا جاتا ہے - (ایش)

اگر وہ پہلے نہیں تو نہیں کوئی بعد میں نہیں دیتا۔

رُندی یا - (رُند - یا) - (دہ - ا) - (مٹ) [ا] دیکھے رُندا۔

رُندا آب (Runnerup) (رُند - آب) - (انگ) - (ا) - (مذ) کھلاڑی جو آخری

مقابلے میں پہنچ کر بار جائے۔

رُنس - (دہ - ا) - (مٹ) کرن - شعاع۔

رُنگ - (س - صفت) [ا] حریریں - طامح (۲) کبوس - نینل (۳) کینڈ - رزیل۔

(۴) مزیب - مجلس (۵) کم بخت - بد نصیب (۶) جھوکا - ناقہ کش -

(۷) [مذ] تیر - جھوکا آدمی۔

رُنگو - (زن - کو) - (س - ا) - (مذ) ایک قسم کا چرن۔

رُنگھتا - (رُنگھ - رُنگھ) - (رُنگھ - کھ) - (دہ - صفت) [ا] رونے پر آمادہ۔

(۲) رنجیدہ - ناراض۔

رُنگ - (ف - ا) - (مذ) [ا] رُنگ - لون - نام (۲) چیزوں کی وہ خاصیت جس

کی وجہ سے وہ سُورج کی بعض کرنوں کو جذب کر لیتی ہیں اور بعض کو

منعکس کر کے آنکھ پر ڈالتی ہیں جن کا خاص اثر آنکھ پر ہوتا ہے۔

سینڈ کرن سات رُنگوں سے مرکب ہوتی ہے۔ اودا - نیلا - آسمانی - سبز۔

زرد - نارنجی اور سرخ۔ اصل رنگ صرف تین ہیں۔ نیلا - زرد اور سرخ۔

دوسرے سب رنگ ان کے مرکبات ہیں (۳) رنگت - روپ (۴) انداز

طرز - روش (۵) وہ صوف یا سیال چیز جس سے رنگتے ہیں (۶) روشن

دارکش (۷) قسم - نوع (۸) ہبار - خوبصورتی - رونق (۹) مانڈ - نظیر (۱۰)

دستور - قاعدہ - رسم - طریقہ (۱۱) مزہ - لطف - شغل (۱۲) خمار نشہ (۱۳)

طاقت - قوت (۱۴) سلوک - برتاؤ (۱۵) ہم سر - جڑ (۱۶) مگر - جملہ۔

غریب (۱۷) ہنسلی - مذاق - چہل (۱۸) کھیل کوڈ (۱۹) ناچ - راگ - گانا (۲۰)

کیفیت - حال - حالت (۲۱) خوشی - سمرت - خوشحالی (۲۲) تماش - سیر۔

(۲۳) سان - موسم (۲۴) گینے کی آٹھوں بازیوں کے نام (۲۵) چوسر کی آٹھوں

نردوں کا نام (۲۶) اس رنگ کی نردیں جو پہلے کھیلی جائیں (۲۷) تاش کی

چاروں بازیوں کا نام (۲۸) تریپ - ٹریپ (۲۹) خون - بیو۔

رُنگ آبدار ہونا - (ا - محاورہ) پھیلنا ہونا۔

رُنگ آشنا - (ج - ف - صفت) [ا] چہرہ دیکھ کر حال معلوم کرنے والا۔

رُنگ آسرنی - (ن - ا) - (مٹ) [ا] رنگ کا کام۔ رنگ سازی (۲) نقاشی

معتوری (۳) تجارت آرائی (۴) مبالغہ۔

رُنگ آنا - رُنگ پر لھنا - (ا - محاورہ) رونق آنا۔ پھیکا بن جانا رہنا۔

رُنگ اترنا - (ا - محاورہ) [ا] رنگ جاتا رہنا (۲) چہرے کا متعیر ہو جانا۔

رُنگ اٹھانا - (ا - محاورہ) رنگ قبول کرنا۔

رُنگ اٹھنا - (ا - محاورہ) چوسر کی گوٹ کا سب خانے طے کرنے کے بعد

کامیابی سے اٹھنا۔

رُنگ اچھالنا - (ا - محاورہ) رنگ پھینکنا۔ رنگ ڈالنا۔

رُنگ اداس ہونا - (ا - محاورہ) رنگ کا پھیکا ہونا۔

رُنگ اڑانا - (ا - محاورہ) [ا] رنگ نائل کرنا - اپنے فروغ یا شوخی سے دوسرے

کو بے رنگ کرنا (۲) طرز اڑانا - طرز دیکھ لینا۔ انداز اڑانا۔

رُنگ اڑ جانا - رُنگ اڑنا - (ا - محاورہ) رنگ جاتا رہنا۔ رنگ پھیکا پڑ

جانا (کنایت) چہرے کا رنگ متعیر ہونا۔

رُنگ افشانی - (ف - مٹ) رنگ پھرن۔

رُنگ اکھڑنا - (ا - محاورہ) [ا] بے رونق ہونا۔ بے رونق ہو جانا (۲) اثر

جانا رہنا (۳) کنایہ ہے کسی کی بے رونق اور بے رونقی سے کسی انجن

یا نقل میں۔

رُنگ اور ہو جانا - (ا - محاورہ) رونق آ جانا۔ رنگ بدل جانا۔

رُنگ باختہ - (ف - صفت) رنگ اڑا ہوا۔ زرد۔

رُنگ باڈھنا - (ا - محاورہ) سماں باڈھنا۔

رنگ بدل جانا - (۱- محاورہ) (۱) متغیر ہونا۔ (۲) روش تبدیل ہو جانا۔
 وضع بدل جانا (۳) انقلاب ہونا۔
 رنگ بدلنا - (۱- محاورہ) ایک رنگ سے دوسرا رنگ تبدیل کرنا (۲)
 طرز بدلنا۔ وضع تبدیل کرنا۔ انقلاب ہونا (۳) حالت بدلنا۔
 رنگ برنگ - رنگا رنگ - (ف- صفت) (۱) مختلف رنگ (۲) مختلف
 اقسام - متنوع۔
 رنگ پکڑنا - (۱- محاورہ) (۱) رنگ کا خواب ہونا۔ بے رونق ہونا۔ بد رنگ
 ہونا (۲) حالت متغیر ہونا پتلا حال ہونا۔
 رنگ بنانا - (۱- محاورہ) دج بنانا۔
 رنگ بندھنا - (۱) کسی جگہ رونق پکڑنا۔ سماں بندھ جانا۔
 رنگ بھرا - (۱) شخص جو رنگ کا زور بناتا ہے۔
 رنگ بھرتا - (۱- محاورہ) (۱) نقاشی کرنا۔ موقع کو موقع پر رنگ آمیزی کرنا۔
 (۲) داستان کو دلچسپ بنانا۔
 رنگ بھریا - (۱- مذ) مصور۔ نقاش۔
 رنگ بھنگ - (۱- مذ) (۱) ہنسی۔ مذاق۔ چیل (۲) مستی۔ شہوت۔
 رنگ بھنگ کرنا - (۱- محاورہ) مزہ بکرا کرنا۔ لطف بگاڑنا۔
 رنگ بے رنگ ہونا - (۱- محاورہ) حالت خراب ہو جانا۔
 رنگ باشتی - (ف- اسمت) (۱) رنگ چھڑنا (۲) بولی کی ایک رسم۔
 رنگ پتلا ہونا - (۱- محاورہ) حال بے حال ہونا۔
 رنگ پختہ ہونا - (۱- محاورہ) ایسا رنگ پکا ہونا کہ دھونے سے
 رنگ نہ چھوڑے۔
 رنگ پر آنا - (۱- محاورہ) رونق پر آنا۔ بہار پر آنا (۲) زوروں پر ہونا۔
 تیز ہونا۔
 رنگ پر ہونا - (۱- محاورہ) رونق یا بہار پر ہونا۔
 رنگ پریدہ - (ف- اسمت) (۱) رنگ اڑا ہوا۔ زرد۔ پیلا۔
 رنگ پکڑنا - (۱- محاورہ) (۱) رنگ چڑھنا (۲) بارونق ہونا۔ رونق پکڑنا۔
 رنگ پھوٹنا - (۱- محاورہ) رنگ کا دوسری طرف بھل جانا۔
 رنگ پھیرنا - (۱- محاورہ) رنگ کرنا یا لگانا۔ وارنش کرنا۔
 رنگ پھیکا پڑنا - (۱- محاورہ) (۱) رنگ دم ہونا (۲) رونق کم ہونا (۳)
 بے لطف ہونا۔
 رنگ پیدا کرنا - (۱- محاورہ) رنگینی طبیعت یا رنگینی مزاج کے اعتبار سے
 کوئی ڈھنگ اختیار کرنا۔
 رنگ پھلا پڑنا - (۱- محاورہ) رنگ اڑ جانا۔ رنگ زرد ہو جانا۔
 رنگ نکلنا - (۱- محاورہ) (۱) رنگ کا تراش کرنا کسی خاص حالت میں (۲)
 خاص حالت ظاہر ہونا۔
 رنگ پھرنے - (۱- محاورہ) رنگ کا پائیدار ہونا۔ نہ اڑنا۔
 رنگ چل جانا - (۱- محاورہ) (۱) رنگ کا سیاہ ہو جانا (۲) تابش آفتاب
 دم دھستے یا خون کے سیاہ ہو جانے سے چہرے پر تیرگی پیدا جانا۔
 رنگ جمانا - (۱- محاورہ) (۱) اتر ڈالنا۔ رسوخ پیدا کرنا۔ قابو کر لینا (۲)
 بنیاد ڈالنا۔

رنگ جھٹکا - (۱- محاورہ) (۱) رنگ آنا۔ رنگ قائم ہونا (۲) اعتبار پیدا ہونا۔
 کسی کا کسی جگہ کچھ فروغ ہونا (۳) نظروں میں بھلا معلوم ہونا (۴) بنیاد
 پڑنا۔ رسائی پیدا ہونا۔
 رنگ چڑھانا - (۱- محاورہ) (۱) رنگنا۔ رنگین کرنا (۲) وارنش کرنا۔ رونق کرنا
 رونق دار بنانا (۳) نمود کرنا (۴) سماں باندھنا (۵) اپنا سنا بنانا (۶) مصرفت
 یا خدا شناسی کا مزہ ڈالنا۔
 رنگ جھکنا - (۱- محاورہ) (۱) رنگ کی آب و تاب بڑھ جانا۔ شہرت زیادہ ہونا۔
 رنگ چوکھا آنا - (۱- محاورہ) گہرا رنگ آنا۔
 رنگ چھٹا ہونا - (۱- محاورہ) رنگ شرخ ہونا۔
 رنگ چھڑنا - (۱- محاورہ) رنگ کے پھینٹے دینا۔
 رنگ دار - (ف- صفت) (۱) رنگین۔ رنگا ہوا (۲) چمکیلا۔
 رنگ دکھانا - (۱- محاورہ) کیفیت دکھانا۔ لطف دکھانا۔ حالت دکھانا۔
 (۲) طرز دکھانا (۳) اثر ظاہر کرنا (۴) جوہر دکھانا۔
 رنگ دگرگون کرنا - (۱- محاورہ) (۱) خواب کیفیت پیدا کرنا (۲) رنگ بدلنا
 رنگ دینا - (۱- محاورہ) (۱) رنگینی ظاہر کرنا (۲) لطف دینا۔ مزہ دینا (۳) بات
 بنا دینا (۴) چلا کر دینا (۵) مال مال کر دینا (۶) مبالغہ کرنا۔
 رنگ دیکھنا - (۱- محاورہ) سیر دیکھنا۔ بہار دیکھنا (۲) اثر دیکھنا (۳) مقصد پر
 نظر ڈالنا (۴) رخ دکھنا۔
 رنگ ڈالنا - (۱) پانی میں گھولنا ہوا رنگ کسی پڑنا۔
 رنگ ڈھنگ - (۱- مذ) چال چلن۔ برتاؤ۔ عادت۔ حالت۔ کیفیت۔
 رنگ رچانا - (۱- محاورہ) (۱) شادی رچانا۔ کسی خوشی کی تقریب کا سامان
 مہیا کرنا (۲) رنگین بنانا۔
 رنگ دہینا - (۱- محاورہ) رنگ کا بخوبی اثر کرنا۔ رنگت بٹھینا۔
 رنگ دس - (۱- مذ) (۱) رنگ ریاں (۲) عیش و عشرت۔
 رنگ رسیا - (۱- محاورہ) رنگیلا۔ عیاش۔
 رنگ رسیاں - (۱- اسمت) ہنسی۔ چہل۔ عیش و نشاط۔ مزہ۔ لطف۔
 کھیل۔ مٹاشا۔
 رنگ رنگ سے - (۱) طرح طرح سے۔ وضع وضع سے۔
 رنگ رنگ کا - (۱) طرح طرح کا۔ مختلف رنگ کا۔ مختلف وضع کا۔
 رنگ رنگنا - (۱- محاورہ) (۱) کوئی رنگ چڑھانا (۲) کسی رنگ میں کپڑا
 رنگین کرنا۔
 رنگ رنگیلا - (۱- مذ) (۱) رنگین (۲) نالائق (۳) عیاش۔
 رنگ روپ - (۱- مذ) (۱) چمک دمک۔ آب و تاب (۲) مجید۔ خند و خال۔
 چہرہ بہرہ۔
 رنگ روپ دیکھ کر نہ بھولیے - (۱) ایش، ظاہری صورت پر نہ مہیائے۔
 رنگ روپ نکالنا - (۱- محاورہ) بہار پر آنا۔ چمک دمک پر پہنچنا۔
 رنگ روخن نکالنا - (۱- محاورہ) بہار پر آنا۔ خوبصورت ہو جانا۔
 رنگ ریز - (ف- صفت) (۱) پکڑا رنگتے والا۔ نیلا۔ ری۔ مزیدن کا اسم نا مل سماجی
 ہے۔ جس کے معنی رنگنا ہیں۔
 رنگ ریز ہونے کو اپنی ڈاڑھی رنگتے (۱) ایش، اگر کسی بات کے قابل

ہوتے تو ترقی کرتے۔

رنگ ریزمی (۱)۔ رش۔ رنگ ریز کا کام۔ رنگے کا پیشہ۔

رنگ زد ہونا۔ رنگ سفید ہونا۔ رنگ فق ہونا (۱)۔ محاورہ (شرم) یا خوف سے چہرے کی سرخی کا جاتا ہونا (۲)۔ خون خشک ہو جانا (۳)۔ ہجرت زدہ ہونا۔

رنگ ساز۔ رف۔ صفت (۱)۔ رنگ یا دارش کرنے والا (۲)۔ دستور (۳)۔ رنگ بنانے والا۔ (۴)۔ کیمیا گر۔

رنگ سفید پڑ جانا۔ (۱)۔ محاورہ (خوف یا ڈر کی وجہ سے چہرے کی رنگت جاتی رہنا)۔

رنگ شکستہ۔ (۱)۔ مذ (۲)۔ اڑا ہوا رنگ۔ بے رونق۔

رنگ شوخ ہونا۔ (۱)۔ محاورہ (رنگ گہرا اور چمکدار ہونا)۔

رنگ فق ہونا۔ (۱)۔ محاورہ (رنگ اڑ جانا۔ ہوائیاں اڑنا)۔

رنگ کا۔ (۱)۔ صفت (طرح کا۔ ڈھب کا)۔

رنگ کاٹنا۔ (۱)۔ محاورہ (۱)۔ رنگ ڈور کرنا۔ کھار یا ترشی سے کسی چیز میں سے رنگ کا جدا کرنا (۲)۔ دوسرے کا جانا (۱)۔ اعتبار اٹھانا۔

رنگ کٹنا۔ (۱)۔ مذ (۲)۔ رنگ اڑنا۔ رنگین پڑے کی رنگت زائل ہونا (۳)۔ شرم یا خجالت سے رنگ کا ستیتر ہونا (۴)۔ (پوسر یا زوں کی اصطلاح) گوٹ کا ہونا۔

رنگ کھلنا۔ (۱)۔ محاورہ (۱)۔ کسی چیز یا چہرے پر رنگ کا موزوں اور نمایاں ہونا۔ رنگ کا زیب دینا (۲)۔ سیاہی یا نل رنگ کا سفیدی نائل ہونا۔

رنگ کا جوانی یا طاقت کی دوا کی وجہ سے کھلنا۔

رنگ کھیلنا۔ رنگ ڈالنا۔ (۱)۔ محاورہ (خوشی کے موقع پر آپس میں ایک دوسرے پر رنگ پھینکا۔ بولی کھیلنا)۔

رنگ لانا۔ (۱)۔ محاورہ (۱)۔ رنگ پلانا۔ رنگین ہونا۔ اچھا دکھائی دینا (۲)۔ مٹھا کرنا (۳)۔ بڑائی کرنا (۴)۔ تماشا دیکھنا۔ مزہ چکھنا (۵)۔ مختلف منہ سے اپنے تئیں ظاہر کرنا (۶)۔ خوش بطن ظاہر کرنا۔ شاد پر آمادہ ہونا۔

مکھڑا کرنا (۷)۔ بوسریں رنگ کی نردوں کا پہلے گھر میں آ کر اٹھ جانا۔

رنگ لینا۔ (۱)۔ محاورہ (۱)۔ رنگا (۲)۔ کسی کو اپنے ڈھنگ پر بنا لینا (۳)۔ مذہب میں داخل کر لینا (۴)۔ ہم رنگ بنالینا۔

رنگ ماند ہونا۔ (۱)۔ محاورہ (۱)۔ رنگ پھیکا ہونا۔

رنگ متعیر ہونا۔ (۱)۔ محاورہ (۱)۔ گھبرا جانا۔ چہرے کا رنگ بدل جانا۔

رنگ مٹانا۔ (۱)۔ محاورہ (۱)۔ روپ کھونا۔ شرم جاتا ہونا (۲)۔ اثر یا وقت جاتی رہنا۔

رنگ نچی ہونا۔ (۱)۔ محاورہ (۱)۔ آب و تاب نہ رہنا۔

رنگ عمل۔ (۱)۔ مذ (۲)۔ عیش و عشرت کا گھر۔ عشرت گاہ وہ مکان جس میں بادشاہ یا امرا و عیش منائیں (۳)۔ سماجی مکان۔

رنگ میں بھنگ۔ (۱)۔ محاورہ (۱)۔ خوشی میں بے نظمی۔

رنگ میں ڈوبنا۔ (۱)۔ محاورہ (۱)۔ رنگ میں شرا بہر ہونا۔ عیش و نشاط کا بوش ہونا۔ کسی کے طرز پر ہونا۔

رنگ نکالنا۔ (۱)۔ محاورہ (۱)۔ خوبصورت ہو جانا (۲)۔ طرز نکالنا (۳)۔ کسی دوسری چیز سے رنگ پیدا کرنا (۴)۔ صورت اختیار کرنا۔

رنگ نکلنا۔ (۱)۔ محاورہ (۱)۔ کسی چیز میں رنگ بھلنا۔ نمایاں ہونا (۲)۔ پھڑکا۔ رنگ ٹھہرنا۔ (۱)۔ محاورہ (۲)۔ رنگ صاف ہونا۔

رنگ و بو۔ (۱)۔ صفت (گرد و فر۔ شان و شوکت۔ رونق)۔

رنگ دروغین۔ (۱)۔ مذ (۲)۔ ہمک۔ رنگ۔ خوبصورتی۔ حسن (۳)۔ رنگینی یا رنگت کسی چیز کی۔

رنگ۔ (Ring) (۱)۔ مذ (۲)۔ دائرہ۔ گنڈلی۔ پتھر (۳)۔ انگوٹھی۔ چھلا۔ الجھتری۔

رنگ لیڈر۔ (Ringleader) سرمن۔ بانیوں کا سرکردہ۔

رنگ ماسٹر۔ (Ringmaster) سرکس کا منتظم۔

رنگار۔ (رنگ۔ رن۔ گ۔ ر۔ ا۔ و۔ ق۔ ا)۔ مذ (۲)۔ رنگ ساز۔

رنگانا۔ رنگوانا۔ (رنگ) [رنگ کمانا۔ رنگت دلوانا)۔

رنگا ہوا۔ (۱)۔ صفت (رنگ کیا ہوا (۲)۔ کتا بیٹہ عارف کامل)۔

رنگا ہوا ستارہ۔ وہ شخص جس کا ظاہر اچھا اور باطن خراب ہو۔

رنگائی۔ رنگو آئی۔ (رنگ۔ گ۔ ا۔ ی۔ ا۔ ی۔ رنگ)۔ (۱)۔ مذ (۲)۔ (۱)۔ رنگت کی اجرت۔

رنگت۔ (رنگ۔ گت)۔ (۱)۔ مذ (۲)۔ (۱)۔ چہرہ کا رنگ (۲)۔ کپڑے کا رنگ (۳)۔ روپ (۴)۔ حالت۔ کیفیت۔

رنگت غیر ہونا۔ (۱)۔ محاورہ (شرم یا ندامت سے چہرے کا رنگ بدل جانا)۔ رنگڑا۔ (رنگ۔ ت۔ ل)۔ (۱)۔ مذ (۲)۔ ایک ترش اور پھل۔ سنگتہ۔ نارنج بڑی نارنجی۔

رنگ۔ (رنگ۔ رن۔ گ۔ نا)۔ (۱)۔ صفت (پتے کا ہر وقت رونایا ٹھکنا۔ بھٹکنا)۔

رنگروٹ۔ (رنگ۔ روٹ) (Recruit) (۱)۔ کاتوڑ۔ (۱)۔ مذ (۲)۔ نیا سپاہی۔ نیا بھرتی کیا ہوا۔ نوآرموز۔

رنگین۔ (رنگ۔ گن)۔ (۱)۔ مذ (۲)۔ بھرتی کا عرق۔

رنگینا۔ (رنگ۔ نا)۔ (۱)۔ صفت (۲)۔ رنگ کرنا۔ رنگ پڑھانا (۳)۔ اپنا سانا (۴)۔ ہم رنگ کرنا (۳)۔ عارف بنانا۔

رنگو تیا۔ (رنگ۔ ڈی)۔ (۱)۔ مذ (۲)۔ رنگ ساز۔

رنگیلا۔ (رنگ۔ گی)۔ (۱)۔ صفت (۲)۔ رنگین مزاج (۳)۔ بانگا۔ خوش پوشاک (۴)۔ زندہ دل (۵)۔ وضع دار (۵)۔ عیاش۔

رنگیلی۔ (رنگ۔ گی)۔ (۱)۔ صفت (رنگیلا کی تائینٹ)۔

رنگین۔ (رنگ۔ گین)۔ (۱)۔ صفت (۲)۔ رنگ کیا ہوا۔ رنگ دار (۳)۔ (۱)۔ رنگینا۔ بھیللا (۳)۔ زندہ دل۔ خوش طبع (۴)۔ فریق۔ سماج ہوا (۵)۔ رنگ بڑنگ کا (۶)۔ سرخ (۷)۔ دل پسند۔ خوش آئند (۸)۔ جیسے رنگین خزان رنگین عبارت۔

رنگین زبان (حسن)۔ (۱)۔ صفت (خوش بیان (۲)۔ شوخ زبان (۳)۔ خوش ادا)۔

رنگین ادا۔ (۱)۔ صفت (طرح دار۔ خوش ادا)۔

رنگین زبان (حسن)۔ (۱)۔ صفت (خوش بیان (۲)۔ شوخ زبان (۳)۔ خوش ادا)۔

رُوساہ - (ف. صف) شرمندہ - گنہگار - کالا منہ - کالے منہ کا۔
 رُوساہی - (ف. ۱. مٹ) ذلت - رسوائی - بدنامی۔
 رُوشناس - (ف. صف) جان پہچان والا - واقف کار۔
 رُوشناسی - (ف. ۱. مٹ) واقف کاری - صاحب سلامت - جان پہچان
 رُوکار - (ف. ۱. مٹ) اگلا جتہ - سامنے کا جتہ۔
 رُوکش - (ف. صف) مقابل - حریف - ہمسر - مانند - مشابہ - آئینہ - کاغذات۔
 رُوگرداں - (ف. صف) (۱) منہ پھیرنے والا - ناراض - ناخوش - مغرور
 (۲) بے رواج۔

رُوگردانی - (ف. ۱. مٹ) اعتراف - منہ پھیرنا - نا فرمانی۔
 رُومال - (۱) کپڑے کا ٹکڑا جو منہ وغیرہ صاف کرنے کے کام آتا ہے۔
 دست مال (۲) وہ اونی یا ریشمی کپڑا جو ٹکڑا اور ڈھا جاتا ہے (۳)
 وہ کپڑا جو تلوار کے قبضے میں باندھتے ہیں۔
 رُومال پر رُومال بھگوننا - (۱) محاورہ) اس قدر روناکہ رومال تر ہو جائیں۔
 رُومالی - (۱) اورٹھنی - لڑکیوں کے اورٹھنے کا دوپٹا (۲) میانی کا کپڑا -
 (۳) وہ سرگوشی کپڑا جو پہلوان بوقت ورزش باندھتے ہیں (۴)
 ٹوہند (۵) وہ رومال جو عمدتیں سر سے باندھ لیتی ہیں (۶) ایک قسم کا
 کبوتر - گدڑ کی ایک ورزش۔

رُومالی سویاں - (۱. مٹ) بہت باریک ہوتیاں جنہیں رومال میں باندھ
 کر کھولتے پانی میں غوطہ دیں تو پک جائیں۔
 رُومنا - (ف. صف) جو منہ دکھانے جو ظاہر ہو۔
 رُومنا ہونا - (۱) محاورہ) ظاہر ہونا - منہ دکھانا - وقوع پذیر ہونا۔
 رُومنائی - (ف. ۱. مٹ) (۱) منہ دکھانا (۲) وہ نقدی جو خاندان یا اس کے
 رشتے دار کو دین کو منہ دکھانے کی دیتے ہیں - منہ دکھائی - سلامی۔
 رُوٹے سخن - (ف. ۱. مٹ) بات کا طرح - خطاب سخن۔
 رُویش میں حالش پھیرس - (ف. مثل) صورت دیکھنے سے حال
 ظاہر ہے۔ دریافت کرنے کی ضرورت کیا۔

رُوا - (ر. ۱. مٹ) (۱) سوجی (۲) ریت کا ذرہ (۳) چاندی یا سونے
 کے دانے (۴) بارود کا دانہ (۵) چترا جو پاؤں سے لپکتے ہیں
 روٹے دار - (۱. مٹ) (۱) دانہ دار - خستہ۔

رُوا - (ر. ۱. مٹ) (۱) جانز - مباح - درست - ٹھیک (۲)
 (مرکبات میں) پورا کرنے والا (جیسے حاجت روا) جاری کرنے والا۔
 نافذ کرنے والا (جیسے فرمان روا)۔
 رُوا دار - (ف. صف) جانز رکھنے والا - مباح رکھنے والا۔
 رُوا دار نہ ہونا - (۱) محاورہ) خواہاں نہ ہونا - یقین نہ رکھنا - ساقی نہ ہونا۔
 رُواداری - (ف. ۱. مٹ) کسی بات کو رعایت سے جانز رکھنا بے یقینی۔
 رُوا رکھنا - (۱) محاورہ) جانز رکھنا - منظور کرنا - ماننا - قبول کرنا۔

رُوا بط - (ر. ۱. مٹ) (۱) ر. ۱. مٹ) (۱) رابطہ کی جمع - تعلقات - میل جول۔
 رُوا بچ - (ر. ۱. مٹ) (۱) ر. ۱. مٹ) (۱) عام دستور - ریت - رسم (۲) منابطہ۔
 قاعدہ - معمول۔

رُنگین زبانی (سخنی) - شوخ زبانی - خوش زبانی۔
 رُنگین کمان - (ف. ۱. مٹ) قوس قزح۔
 رُنگین مزاج - (ف. صف) خوش طبع - ہنس مکھ - زندہ دل۔
 رُنگینی - (ر. ۱. مٹ) (۱) ر. ۱. مٹ) (۱) تلون (۲) بھڑک - آرائش - نمائش
 بناؤ سنگار (۳) خوش مزاجی - خوش طبعی (۴) بانگ پن۔
 رُنگین سخن - (ف. ۱. مٹ) کلام کا رنگین ہونا۔
 رُنگ کسٹری (Running commentary) - رُنگ کسٹری - (ف. ۱. مٹ) ری
 ڈانگ - (۱) مذا فی البدیہہ آنکھوں دیکھا حال بیان کرنا۔
 رُنی - (ر. ۱. مٹ) (۱) مٹ) (۱) اردو۔

رو

رُو - (۱. مٹ) (۱) پانی کا بہاؤ - سیلاب - دھار (۲) بوش - دلولہ - غصتہ۔
 (۳) دھن - خیال (۴) فوج - لشکر - بھیڑ - انہو۔
 رُو - (ف. صف) چلنے والا (مرکبات میں مستقل ہے جیسے راہ رُو)۔
 رُو - (ف. صف) اُگنے والا (مرکبات میں استعمال ہوتا ہے جیسے خود رو۔
 رُو - (ف. ۱. مٹ) (۱) چہرہ - مچھڑا - رخ - صورت - شکل (۲) مذومٹ
 سبب - وجہ - باعث (۳) بساط - سطح - تختہ (۴) سامنا - آگاہ (۵)
 (۱) امید - تمنا (۶) رعایت۔
 رُو براہ - (ف. صف) (۱) تیار - مستعد - کمر بستہ (۲) اصلاح کیا ہوا - درست۔
 رُو برو - (ف. صف) منہ در منہ - آنسنے سامنے - مقابل۔
 رُو برو کرنا - (۱) محاورہ) (۱) سامنے کرنا - مقابل کرنا (۲) سپرد کرنا (۳)
 صورت دکھانا (۴) پیش کرنا۔
 رُو بکار - (ف. ۱. مٹ) پیشی - عدالتی حکم - پروانہ۔
 رُو نبہ صحت - (ف. صف) صحت کی طرف مائل۔
 رُو نہ قفا - (ف. صف) سر جھکائے ہوئے۔
 رُو نایک - (ف. ۱. مٹ) (۱) رُو مال۔
 رُو پوش - (ف. صف) چھپا ہوا - مخفی - پوشیدہ۔
 رُو پوشی - (ف. ۱. مٹ) (۱) منہ چھپانا - غائب رہنا۔
 رُو پیٹ کر پیٹھ رہنا - (۱) محاورہ) مبر کرنا۔
 رُو داد - (ف. ۱. مٹ) (۱) کیفیت - حالت - حقیقت (۲) عدالت کی
 کارروائی (۳) وہ تحریر جس میں کارروائی درج ہو (۴) رپورٹ۔
 رُو داد مقدمہ - (ف. ۱. مٹ) مقدمے کی کیفیت - عدالت کی کارروائی۔
 رُو دار - (ف. صف) وجہ - شکیلی - خوبصورت۔
 رُو داری - (ف. ۱. مٹ) (۱) کسی کی موجودگی کی شرم - وجاہت -
 لحاظ - پاس۔
 رُو درُو - (ف. صف) بے علائقہ - کسی کے رُو برو۔
 رُو رعایت - (ف. ۱. مٹ) پاس - لحاظ - مہربانی۔
 رُو روکے - (۱) تابع فعل - بشکل تمام بڑی وقت اور مصیبت سے۔

رُوآنی - (رُو - وا - نی) (ف - ا - مِث) [ہماؤ تیزی - اجراء -
رُوآنی - (ف - ا - مِث) پر درکارنا ڈر کرنا حرکت میں استعمال ہوتا ہے جیسے حاجت روانی۔
رُوایات - (رُو - وا - یات) (ع - ا - مِث) روایت کی جمع۔
رُوایت - (رُو - وا - یات) (ع - ا - مِث) کسی کی بات کی نقل۔ اظہار۔
حکایت۔ سرگزشت۔

رُو باہ - (رُو - واہ) (ف - ا - مِث) (ا) لوٹری (۲) بزدل۔
رُو باہ بازی - (ف - ا - مِث) مکہ - فریب - چال۔

رُو باہی - (رُو - واہ - ہی) (ف - ا - مِث) [فریب - چال - کسر بھل۔
رُو بزلنی - (رُو - ب - را - ای) (ق - ا - مِث) [ایک قسم کی اولٹلی۔
رُو بیل - (Rouble) (رُو - بیل) (دوسری - ا - مِث) روس کا سکہ۔

رُو بولٹ - (Robot) (رُو - بولٹ) (ا) مگ - ا - مِث) کل کا آدمی - مشین
کا بنا ہوا آدمی۔

رُو بٹھنا - (رُو - بٹھ - نا) (ع - مِث) [صانع کر دینا - نایمید یابوس ہوجانا - کھو بیٹھنا۔

رُو ب - (رُو - ب - ا - مِث) (۱) صورت - شکل (۲) ڈھنگ - طرز - انداز - وضع۔
(۳) آب و تاب - رونق - جلہ - تجلی (۴) مرغوب اور پسندیدہ (۵)

تصویر (۶) سوانگ (۷) چاندی - رُو پا کا مخفف (۸) ایک بات سے
دوسری بات کی طرف پٹا کھانا۔

رُو پ بدلنا - (ا) محاورہ) جیس بدلنا - صورت اور وضع کا تہ کرنا۔

رُو پ بگاڑنا - (ا) محاورہ) بد صورت کرنا - چہرہ بگاڑنا - بے رونق کرنا۔

رُو پ بنانا - (رُو پ بھرنا) - (ا) محاورہ) (۱) سوانگ بھرنا (۲) نہایت

تخلیقوت یا حسین بنانا (۳) صورت بدلنا (۴) چہمت درست کرنا۔

رُو پ ڈرکنا - (رُو - ا - مِث) (۱) چاندی کی کسی چیز کا نظر رہ (۲) وہ روپیہ

جو ذہن کو پڑھایا جائے (۳) روپیے کا نذرانہ۔

رُو پ دکھانا - (ا) محاورہ) درشن دینا - صورت دکھانا۔

رُو پ دھاری - (رُو - ہا - ا - مِث) (۱) جیس بدلنے والا - شکل بدلنے والا (۲)

وہ شخص جس نے جیس بدلنا۔

رُو پ رس - (رُو - ہا - ا - مِث) چاندی کا کتھتہ۔

رُو پ وان - رُو پ دُنت - خوبصورت - حسین - خوب رو - سٹھرا۔

رُو پ نکالنا - (ا) محاورہ) چمکنا - نکلنا - آب و تاب ظاہر کرنا۔

رُو پ - (رُو - پ - ا - مِث) (۱) چاندی - سیم - نقرہ (۲) چمچھندر۔

رُو پ کی - (رُو - پ - کی) (ا) مِث) [حقارتاً) رُو پیہ۔

رُو پنا - (رُو پ - نا) (ع - مِث) (۱) بونا - ا - مِث) (۲) ایک جگہ سے اُکھاؤ کر

دوسری جگہ لگانا (۳) رکھنا (ا) مِث) (۴) منگنی (۲) برات۔

رُو پ ہلا - (رُو - پ - لا) (ع - مِث) [چاندی کا بنا ہوا یا چاندی کے رنگ

کا - نقرنی۔

رُو پ کیلی - (رُو - پ - لی) (ا) مِث) [رُو پ کیلی کا تہیت۔

رُو پیہ - رُو پیہ - (رُو پ - ہا - ا - مِث) (۱) ایک سکہ جس کے

سواڑے ہوتے تھے اور جو چاندی کا ہوتا تھا (۲) سکہ جس کی قیمت سو

روپیے میں (۳) دولت - نقدی - چاندی جو کھری ہو کرانا۔ (ا) محاورہ) رُو پے کو

رُو آجی - (رُو - وا - جی) (ع - مِث) رسمی - معمولی - راج۔

رُو آ رُو ی - (رُو - وا - رُو ی) (ا) مِث) [پھل - جھگم بھاگ - جلدی - سرسری۔

گھراہٹ - تیزی۔

رُو آسا - رُو آسا - (رُو - وا - سا) (ع - مِث) [رُو آسا - رُو آسا - رُو آسا - رُو آسا -

ناراض - بچیدہ۔

رُو آسن - (رُو - وا - سن) (ع - ا - مِث) [ایک درخت جس کے بیج اور پتے

دو میں کام آتے ہیں۔

رُو آق - (رُو - وا - ق) (ع - ا - مِث) (۱) مکان کا پتھا - ساٹبان - بالاخانہ

بڑا کمرہ - بگڑی (۲) جامع (بہر مصر) کے کمرے جہاں طلبا رہتے ہیں۔

رُو آق لے ستون - (ع - ن - ا - مِث) [آسان - چرخ۔

رُو آق منظر چشم - (ع - ن - مِث) [آنکھ کی پتلی - مردم چشم۔

رُو آق منظر چشم من آسان تہیت { (ف - مِث) [میری آنکھوں کی

کرم نما، فرود آکر خانہ، خانہ تہیت } پتلی میں تیرا گھر ہے - جہاں بی

کے آجا کر میرا گھر ہے - عزیز پر بلانے کیلئے اجاب کو لکھا جاتا

رُو آلی - (ع - مِث) [فلسفہ افلاطون کا بیرو۔

رُو آلیت - (ع - ا - مِث) [حکمت افلاطون۔

رُو آلی - (رُو - وال) (ع - مِث) [رُو آسے دار - دانے دار (مِث) رُو آ۔

رُو آلی - (رُو - وال) (ف - مِث) (۱) جاری - بہتا ہوا (۲) تیز (۳) بٹھا ہوا۔

(۴) مٹی یا پتھر کے بیسر کسی کتاب کا سبق پڑھنا (۵) موجودہ - فی الحال۔

(۶) مِث) [جان - نفس ناطقہ۔

رُو آلی حساب - (ف - ا - مِث) [بینک کا وہ حساب جس میں سے روز

روپیہ نکالنے کی کوئی تہ یا بندی نہ ہو۔ (Current Account)

رُو آلی دُو آلی - (ف - مِث) [جھگٹا ہوا - تیزی سے چلتا ہوا۔

رُو آلی دُو آلی پھرنا - (ا) محاورہ) مارا مارا پھرنا - آوارہ گرد ہونا۔

رُو آلی کرنا - (ا) محاورہ) (۱) جاری کرنا (۲) صاف کرنا - مِث) کرنا (۳)

چلانا - پھرنا - (۴) تیز کرنا - ہاتھ رکھنا۔

رُو آلی - (رُو - آلی) (ا) مِث) (۱) روگنا - جسم کے باریک بال (۲) چھوٹے

چھوٹے ریش جو ٹیشینے میں ہوتے ہیں (۳) ترکاری یا پھل کے اوپر

کا باریک خار۔

رُو آلی بدلنا - (ا) محاورہ) جھگڑا کرنے والے بال جھگڑ کرنے والے بال نکالنا۔

رُو آلی دُو آلی کا پٹنا - (ا) محاورہ) نہایت خوف اور ڈر ہونا۔

رُو آلی کھڑا ہونا - (ا) محاورہ) بے حد شے کی حالت میں ہونا - رونگٹے

کھڑے ہونا۔

رُو آلی میلا ہونا - مدد یا تکلیف پہنچنا۔

رُو آلی دار - (ا) مِث) [وہ چیز جس میں رویش ہوں۔

رُو آلی - (رُو - وان - گی) (ف - ا - مِث) [روانہ ہونا - ارسال - چالان۔

رُو آلی چھی - (ف - ا - مِث) [راہ داری کا پر دانہ۔

رُو آلی - (رُو - وا - ن - ف - ا - مِث) [صاف کرنا - چلنے والا - جیسا ہوا -

(۲) گیا ہوا۔
رُو آلی ہونا - (ع - مِث) [مدد مانا - رخصت ہونا - مرجانا - استعمال ہونا۔

روٹی اڑ جانا۔ (۱۔ محاورہ) رزق ناپید ہو جانا۔
 روٹی پر روٹی رکھ کر کھانا۔ (۱۔ محاورہ) فارغ ابالی میں گزارنا۔ فراغت
 داخلین سے زندگی بسر کرنا۔
 روٹی ٹکڑا ہو جائے گا۔ گھوڑا ٹٹو ہو جائے گا۔ کپڑا تباہ جائے گا
 (ایشل) یوں ہی برباد ہو جائیں گے۔ مطلب براری مطلق نہ ہوگی۔ دم
 بھانے میں اُمیدواری رکھنا۔
 روٹی ڈال۔ (۱۔ امث) نان نفقہ (۲) معمول غذا (۳) گزارہ۔ خرچ۔
 روٹی ڈال سے خوش۔ (۱۔ صفت) آسودہ۔
 روٹی دینا۔ (۱۔ محاورہ) برادری کو کسی تقریب پر کھانا کھلانا (۲) کھانا
 کھلانا پرورش۔
 روٹی ڈالنا۔ (۱۔ محاورہ) روٹی پکانا۔
 روٹی سے لگنا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) کاروبار سے لگنا۔ ملازمت ملنا (۲) کہیں
 سے رزق روزمرہ مقرر ہو جانا۔
 روٹی کا مارا۔ روٹیوں کا مارا۔ (۱۔ صفت) ناقہ زدہ۔ بھوکا۔ کنگال۔
 روٹی کپڑا۔ نان نفقہ۔ گزارہ۔
 روٹی کپڑے سے خبر لینا۔ (۱۔ محاورہ) کھانے کپڑے سے مدد کرنا۔
 روٹی کپڑے کو ترسنا۔ (۱۔ محاورہ) نہایت غریب ہونا۔ پریشانی
 میں بسر کرنا۔
 روٹی کو روٹنا۔ (۱۔ محاورہ) بھوکا مرنا۔ رزق کی تلاش میں پھرنا۔ رزق نہ
 ملنے سے عم کھانا۔
 روٹی کو روٹنے میں کھڑے ہو کر مڑے کو روٹتے ہیں بیٹھ کر۔
 (ایشل) محتاج کی مصیبت سب سے بڑھ کر ہے اور بے روزگاری
 سخت آفت ہے۔
 روٹی کو روٹے اور چولھے پیچھے سووے۔ (ایشل) روٹی کا مارا
 ایسا کہ تجربہ رہتا ہے۔
 روٹی کھائے ٹکڑے اور دُنیا لیجے مگر سے۔ (ایشل) دُنیا میں مکار
 اور جلاک میش کرتے ہیں۔
 روٹی کی خاک جھاڑنا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) بیجا خوشامد کرنا۔ خدمت کرنا۔
 (۲) مزے سے زندگی بسر کرنا۔
 روٹی دیاں کھاؤ تو پانی یہاں پیو۔ (۱۔ امث) جس قدر جلد ممکن ہو
 سکے واپس آؤ۔
 روٹیاں توڑنا۔ (۱۔ محاورہ) محنت کی روٹیاں کھانا۔ دوسرے کے سر سے کھانا
 روٹیاں لگنا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) تنوز میں روٹیاں پکنا (۲) شامت آنا۔
 روٹیوں پر پڑنا۔ (۱۔ محاورہ) طفیلی ہونا۔ دوسرے کی کمانی کھانا۔
 روٹین۔ (Routine) روٹ۔ (بین) وانگ۔ (۱۔ امث) (۱) معمول کا کام۔
 بندھا ہوا کام۔ روز کا کام (۲) دستور۔ قاعدہ۔ ضابطہ۔
 روچ (Rouge) (وانگ۔ ۱۔ امث) رُخساروں پر لگانے والی سُرخ۔
 روچ۔ (۱۔ مذ) (۱) بیل گائے (۲) ایک قسم کا کپڑا جو برندوں کے روٹیں
 میں ہوتا ہے۔
 روچھنا۔ (روچھ۔ نا) رزق۔ مصدق۔ مُندل ہونا۔ بھرنانا (۲) تنگ کرنا۔ ستانا۔

پیسوں یا زرگاری سے بدلنا
 روپیہ پرکھن بار بار۔ آدمی پرکھن ایک بار۔ (ایشل) روپے کو ہر بار
 اور آدمی کو ایک ہی دفعہ آزمانا کافی ہے۔
 روپیہ پیسا۔ (۱۔ مذ) ذہن۔ دولت۔ مال و زر۔
 روپیہ پیتا پتھ کی میل سے۔ (ایشل) روپیہ پیسا قابل قدر چیز نہیں۔
 روپیہ ٹوٹنا پھیل چھوٹی پھر نہیں رہتی۔ (ایشل) ٹوٹنا ہوا روپیہ جلد خرچ
 ہو جاتا ہے۔ توڑی ہوئی پھیل چھ کالی جاتی ہے۔
 روپیہ ٹھیکری کر دینا۔ روپیہ کنکریاں کر دینا۔ (۱۔ محاورہ) فضول خرچی
 یا بیجاری دینے میں کثرت سے روپیہ صرف کر دینا۔
 روپیہ دیکھا تو ہنس دیا۔ لہو دیکھا تو رو دیا۔ (ایشل) لالچی آدمی کی
 نسبت بولتے ہیں۔
 روپے کو روپیہ کھاتا ہے۔ (۱۔ محاورہ) روپیہ خرچ کرنے سے اور
 روپیہ وصول ہوتا ہے۔
 روپے کو روپیہ نہ سمجھنا۔ روپے کی قدر نہ جاننا۔
 روپے کے چار آنے۔ (بول چال) سنت گھانا پڑنا۔ رقم کا چوتھا رہ جانا
 روپیہ نیک لگنا۔ (۱۔ محاورہ) روپیہ کسی اچھے کام میں صرف ہونا۔
 روپے والا۔ (۱۔ صفت) دولت مند۔ مال دار۔ قواسم۔ معمول۔
 روٹا۔ (۱۔ صفت) روتا ہوا۔ گریاں۔
 روٹی پشانی (صورت)۔ (۱۔ امث) ہر وقت طول اور نگیں رہنے والا۔
 روٹے پھرنا۔ (۱۔ محاورہ) زیادہ کرنا۔ کتنے پھرنا۔
 روٹے بیٹھتے۔ (۱۔ مذ) تابع فعل، آؤ و فغان کرتے۔
 روٹے کیوں ہو کہا صورت ہی ایسی ہے۔ (ایشل) اس شخص کی نسبت
 بولتے ہیں جو ہر وقت روٹی صورت بنائے رہے۔
 روٹے روٹے آنکھیں لال ہونا۔ (۱۔ محاورہ) اتنا زیادہ رونا کہ آنکھیں سُرخ
 ہو جائیں۔
 روٹے گئے موٹے کی خبر لائے۔ (ایشل) جس بدشگون سے گئے ویسی
 ہی بد خبر لائے۔
 روٹ۔ (Route) (وانگ۔ ۱۔ مذ) راستہ۔ راہ۔ طریق۔
 روٹ پر مٹ۔ (وانگ۔ ۱۔ مذ) گاڑی ایس۔ ٹرک۔ ٹانگہ کا کسی خاص
 راستے پر چلنے کا اجازت نامہ۔
 روٹ۔ روٹا۔ (۱۔ مذ) بڑی روٹی۔ موٹی روٹی۔
 روٹری کلب۔ (Rotary club) (روٹ۔ ری۔ ک۔ لب، وانگ) ماہی
 ایک فلاحی انجمن جس کی شاخیں متعدد ممالک میں قائم ہیں۔
 روٹھا۔ (روٹھا۔ ۱۔ صفت) خفا۔ ناراض۔
 روٹھے کو منائے جھٹے کو سلائیے۔ (ایشل) صلح ہی رکھنا مناسب ہے
 روٹھا روٹھی۔ روٹھا راٹھی۔ (۱۔ امث) (۱) ان بن۔ خنقی۔ رنجیدگی۔
 آزدگی۔
 روٹھنا۔ (روٹھ۔ نا) (۱۔ صفت) خفا ہونا۔ ناراض ہونا۔ بگڑنا۔
 روٹی۔ (رو۔ ٹی) (۱۔ مذ) (۱) نان۔ چپاتی۔ پھلکا (۲) چہلم کا کھانا۔
 (۳) غذا۔ برزق۔

رُود۔ (ف۔ ۱۔ مذ۔ مذی۔ ہنر۔ نالا۔
 رُود پار۔ (ف۔ ۱۔ مذ) وہ مقام جہاں سے بہت سی نہریں جاری ہوں۔
 پانی کا وہ بڑا حصہ جو عموماً آبنائے سے چوڑا ہوتا ہے اور دو سمندوں
 کو ملاتا ہے۔
 رُودہ۔ (رُود۔ ۵) (ف۔ ۱۔ مذ) (۱) انگریزی (۲) ساز کی تانت (۳) میل یا
 درخت کی شاخ۔
 رو دینا۔ (رو۔ رو۔ دے۔ نا) (۵۔ مص) (۱) بے اختیار رونا۔ رونا شروع کرنا۔
 (۲) اپنی دفعہ بگڑانا۔ ناما ض ہونا۔ مٹنے ہونا (۳) عاجز ہونا۔ ہمت
 ٹارنا (۴) دب جانا۔ بارمانا (۵) مذاق وغیرہ برداشت نہ کرنا۔
 روڈ۔ (Road) (انگ۔ ۱۔ مٹ) (۱) سڑک۔ راستہ۔ شارع عام۔
 روڈا۔ (۵۔ صفت) منڈے ہوئے سرد والا۔
 رو رو دینا۔ (رو۔ رو۔ دے۔ نا) (۵۔ مص) عاجز آجانا۔ نہایت پریشان ہونا۔
 رو رو گئے کاٹنا۔ (۵۔ مص) مسیت کے ساتھ گزارنا۔ مشکل بساوات کرنا۔
 رو میں آئے تو آنے دو۔ (۱۔ نفل) جو چیز خود بخود اور صفت بل جلتے
 اُسے لے لینا چاہیے۔
 روڑا۔ (رو۔ ڈا۔ ۵) (۱۔ مذ) ٹی یا اینٹ کا ٹکڑا۔ سنگ دینہ (۲) کھتریوں کی
 ایک ذات (۳) مزاج۔ سداہ۔ روک (۴) جانوروں کی ایک بیماری
 جو برسات میں ہوتی ہے۔
 روڑا اٹکانا۔ (۱۔ محاورہ) رکاوٹ پیدا کرنا۔ رخنہ ڈالنا۔
 روڑی۔ (رو۔ ڈی۔ ۵) (۱۔ مٹ) (۱) پتھر یا چونے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے
 جو مکان کی منڈیروں۔ کچے فرشوں اور پکی سڑکوں کے اوپر لنگروں
 کے نیچے بکھائے یا عمارتوں کی بنیاد میں کوٹے جاتے ہیں (۲)
 گرد کی بھیلی۔
 روز۔ (روز۔ روز) (ف۔ ۱۔ مذ) (۱) دن۔ وار۔ یوم۔ بار۔ تاریخ۔ شہ (۲) مزدوری
 دن بھر کی اجرت۔ روزینہ (۳) وقت۔ زمانہ (۴) اُڑا مرنے کا دن۔
 تاریخ وفات۔ یوم فاتحہ (۵) ہمیشہ۔ ہر روز۔ سدا۔
 روزِ استفتاح۔ (ف۔ ۱۔ مذ) (۱) خوشی کا دن (۲) رجب کی ۱۵ تاریخ۔
 روزِ افزائے۔ (ف۔ ۱۔ مذ) (۱) دن کو بڑھانے والا (۲) پارسیوں کے
 سال کا چوتھا مہینہ۔
 روزِ افزوں۔ (ف۔ صفت) آٹے دن زیادہ۔ روزانہ ترقی۔
 روزِ اُست۔ (ف۔ ۱۔ مذ) وہ دن جب کہ خدا اور انسان کے درمیان
 مبارکہ ہوا تھا۔
 روزِ امید و بیم۔ (ف۔ ۱۔ مذ) قیامت کا دن۔ روزِ محشر۔
 روزِ بازار۔ (ف۔ ۱۔ مذ) بازار کھلنے کا دن (۲) گرم بازاری۔
 روزِ بٹنا۔ (۱۔ محاورہ) یومیہ تقسیم ہونا۔ روز کے روز مزدوری کا دیا جانا۔
 روزِ بد دکھانا۔ (۱۔ محاورہ) مسیت و پریشانی میں ڈالنا۔
 روزِ بہ روز۔ (ف) آٹے دن۔ ہر روز۔ مسلسل۔ بے درپے۔
 روزِ پسین۔ (ف۔ ۱۔ مذ) (۱) عمر کا آخری دن (۲) قیامت کا دن۔
 روزِ جزا۔ (ف۔ ۱۔ مذ) اعمال کا حساب پیش ہونے، بدلے اور انصاف
 کا آخری دن۔ قیامت کا دن۔

رُوجی۔ رُوجیاں۔ (رُوجی۔ رُوجی۔ جی۔ آل) (۵۔ ۱۔ مٹ) وہ کپڑے جو پرد
 کے پردوں میں پیدا ہوتے ہیں۔
 رُوح۔ (ر۔ ج۔ مٹ) جان۔ جیو۔ آتما (۲) اُڑا۔ مٹ۔ جوہر (۳) دل۔
 (۴) انڈرونی خواہش۔ نیت۔
 رُوحِ اٹکنا۔ (۱۔ محاورہ) دم اٹکنا۔
 رُوحِ افزا۔ (ر۔ ج۔ ف۔ صفت) فرحت و تازگی بخشنے والا۔ رُوح کو
 قوت دینے والا۔
 رُوحِ الامین۔ (ر۔ ج۔ ف۔ مذ) امانت دار رُوح۔ حضرت جبریل مرتبہ کا لقب
 رُوحِ القدس۔ (ر۔ ج۔ ف۔ مذ) پاک رُوح۔ لقب حضرت جبریل مرتبہ
 خدا کی پاک رُوح جو نبی مریم میں پھونکی گئی تھی۔ جس سے حضرت عیسیٰ
 پیدا ہوئے۔
 رُوحِ اُتد۔ (ر۔ ج۔ ۱۔ مذ) حضرت عیسیٰ کا لقب جو باپ کے بغیر پیدا ہوئے تھے
 رُوحِ بھالنا۔ (۱۔ محاورہ) متنفر ہونا۔
 رُوحِ بھگنا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) مدد دہر کا شائق ہونا۔ کسی کے دیکھنے یا
 سنے کو رزنا۔ (۲) جان کا جسم سے نکلنے کے بعد گمراہ ہونا۔
 رُوحِ پرواز کرنا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) جان نکلنا۔
 رُوحِ بڑھنا۔ (۱۔ محاورہ) جسم میں جان بڑھنا۔
 رُوحِ بھڑکنا۔ (۱۔ محاورہ) رُوح بے تاب ہونا (۲) کمال خوشی اور سرور ہونا
 رُوحِ بھونکنا۔ (۱۔ محاورہ) کسی چیز میں جان ڈالنا۔ رونق دینا۔
 رُوحِ تڑپنا۔ (۱۔ محاورہ) دل بے قرار ہونا۔
 رُوحِ تھڑانا۔ (۱۔ محاورہ) رُوح کا پینا۔ اہتمام درجہ کا خوف کھانا۔ خوف
 سے بن لرزنا۔
 رُوحِ رواں۔ (ر۔ ج۔ ف۔ ۱۔ مذ) زندہ رُوح۔ اصل چیز۔ وہ چیز یا شخص
 جس پر کسی امر کا دارومدار ہوتا ہے۔
 رُوحِ فرسا۔ (ر۔ ج۔ ف۔ صفت) رُوح تباہ کرنے والا۔ خطرناک۔
 رُوحِ فنا ہونا۔ (۱۔ محاورہ) سخت خوفزدہ ہونا۔ ڈر کے بارے جان نکلنا
 رُوحِ قالب میں بے چین ہونا۔ (۱۔ محاورہ) رُوح کا گھبرانا (۲)
 سخت گھبراہٹ ہونا۔
 رُوحِ قبض ہونا۔ (۱۔ محاورہ) بے حد خوف ہونا۔ ڈر کے مارے جان نکلنا۔
 رُوحِ کا پینا۔ (۱۔ محاورہ) سخت ڈرنا۔
 رُوحِ کھینچنا۔ (۱۔ محاورہ) است نکالنا۔ جوہر نکالنا۔
 رُوحِ کھیرانا۔ (۱۔ محاورہ) پریشانی اور بے چینی ہونا۔
 رُوحِ کلی رہنا۔ (۱۔ محاورہ) مشتاق ہونا۔ انتظار ہونا۔
 رُوحِ بلنا۔ (۱۔ محاورہ) بہت دوستی ہونا۔ دلی محبت ہونا۔
 رُوحِ نکالنا۔ (۱۔ محاورہ) کسی چیز کا ست نکالنا۔ جوہر نکالنا (۲)
 جان لینا۔ رُوح قبض کرنا (۳) مُردہ کا چالیسواں کرنا۔
 رُوحانی۔ (رُود۔ جانی) (ر۔ ج۔ صفت) رُوح سے متعلق۔ پاک۔ صاف۔ مقدس
 رُوحِ اینت۔ (رُود۔ جانی۔ نیت) (ر۔ ج۔ ۱۔ مٹ) اُردو قوت یا خاصیت۔
 رُوحی فداک۔ (کھڑکتین) میری رُوح تجھ پر دنا ہو۔ خوشی اور
 پسندیدگی کا اظہار۔ رسول خدا کے لیے کہا جاتا ہے۔

روزِ سب - روزِ تشر - روزِ شمار - روزِ قیامت - روزِ وار -
 دن - (۱- مذ) انصاف کا دن - اعمال کا بدلہ دینے کا دن - قیامت کا دن -
 روزِ روز - (ف) آئے دن - ہر روز - ہمیشہ -
 روزِ روز کی دوا بھی غذا ہو جاتی ہے ملائیل اگر عام طور پر دوا
 استعمال کی جائے تو اس کا اثر نہیں ہوتا -
 روزِ روشن میں - (ف) ۱- مذ) عین دن کے وقت - دن دکھانے -
 روزِ سیاہ - (ف) ۱- مذ) مصیبت کا دن - ادبار و بد اقبالی کا زمانہ -
 روزِ سیاہ دیکھنا - (۱- محاورہ) مصیبت میں مبتلا ہونا -
 روزِ کا قہقہہ - (۱- مذ) ہر گھڑی کا جھگڑا -
 روزِ کموال کھودنا - روزِ پانی پلینا - (مشل) جتنا کمانا اتنا ہی کھانا -
 روزِ کمانا - روزِ کھانا -
 روزِ کی جھک جھک - (۱- مٹ) روزِ کی لڑائی - ہر دم کی دانٹا کل کل
 بگ بگ -
 روزِ کی ہونا - (۱- محاورہ) آنے دن ہوتی رہنا -
 روزِ کے حد سے - (۱- مذ) لگاتار مصیبتیں -
 روزِ کے سلامی - روزانہ سلام کو آنے والے -
 روزِ مزہ - (۱) ہر روز - ہمیشہ - متواتر - آئے دن (۲) ہر روز کی گفتگو -
 بول بچال - محاورہ - اصطلاح (۳) تکلیف کلام -
 روزِ ناچمچہ - ہر روز کے حساب لکھنے کی کتاب - ڈائری - کھانا -
 روزِ نامہ - (۱) روزانہ شائع ہونے والا اخبار (۲) کیلنڈر -
 روزِ نامہ نویس - (ف) ۱- مذ) اخبارات میں روزِ مضمون لکھنا - رپورٹر -
 (۲) حساب کتاب لکھنے والا - سیاہم نویس - قلمی میں روزِ ناچمچہ لکھنے والا
 روزِ نخست (ف) ۱- مذ) پیدائش کا دن -
 روزِ و شب - رات دن - مدام - ہمیشہ - سدا - ہر وقت -
 روزانہ - (رُو - زانہ) (ف) تابع فعل (۲) ہر روز - ہمیشہ (۲) یومیہ - روزینہ -
 روزِ گار - (روزِ گار) (ف) ۱- مذ) (۱) زمانہ (۲) نوکری - پیشہ - شغل (۳)
 کمانی - گزارا (۴) موقعِ عمل (۵) قیمت -
 روزِ گار اور دستِ مبارک نہیں ملتا (۱) مٹل) موقعِ لطف سے نہیں چھوڑنا
 جانیے کہ شاید ہی دوبارہ ملے آئے -
 روزِ گار پیشہ - (ف) ۱- صف) نوکری پیشہ -
 روزِ گار حجام کی لنگی ہے - (مشل) نوکری ایک کی نہیں ہوتی - کبھی
 کوئی اس جگہ پر ہوتا ہے کبھی کوئی -
 روزِ گار سے ہونا - (۱- محاورہ) ملازم ہونا -
 روزِ لکنا - (۱- محاورہ) نوکری لکنا - نوکری ہونا - مزدوری لکنا -
 روزِ زن - (رُو - زن) (ف) ۱- مذ) سوراخ - دوشندان - شکاف -
 روزہ - (رُو - زہ) (ف) ۱- مذ) برت - صوم - صبح صادق سے لے کر
 غروبِ آفتاب تک کھانے پینے، جماع سے رُکنا (۲) ناکہ (۳)
 روزے کا دن (۵) روزوں کا ہمینہ - رمضان -
 روزہ اچھلنا - روزے میں جھٹلا کر بائیں کرنا -
 روزہ اظہار کرنا - روزہ کھولنا - (۱- محاورہ) روزہ کا عینہ وقت

گزرنے کے بعد کھانا پینا -
 روزہ بہلنا - (۱- محاورہ) روزہ کا وقت کسی مشنہ میں گنا -
 روزہ پر روزہ رکھنا - (۱- محاورہ) ناکہ پر ناکہ کرنا -
 روزہ ٹوٹنا - (۱- محاورہ) کوئی ایسا فعل کرنا جس سے روزہ نہ رہے -
 روزہ دار - (ف) ۱- مذ) روزہ رکھنے والا -
 روزہ رکھنا - (۱- محاورہ) (۱) مذ) بھی فرض کے موجب سترہ وقت پر
 کھانے پینے سے پرہیز کرنا (۲) ناکہ کرنا -
 روزہ کشائی - (ف) ۱- مٹ) (۱) افطاری (۲) روزہ کھلانے کی تقریب -
 روزہ کھانا - (۱- محاورہ) ماہِ رمضان کا روزہ نہ رکھنا -
 روزے بچھڑانے گئے تھے نماز گلیے پڑی - (مشل) ایک آفت
 سے بچنے کی کوشش کی دوسری میں پھنسے -
 روزے خود - (ف) ۱- مذ) رمضان کے روزے نہ رکھنے والا شخص -
 روزے خور خدا کا چور - (مشل) جو شخص روزے نہیں رکھتا وہ
 خدا کا گنہگار ہے -
 روزی - (رُو - زی) (ف) ۱- مٹ) (۱) رزق - حصہ - نصیب (۲)
 روزِ گار - ملازمت -
 روزی وہ - روزی رسال - (ف) ۱- مذ) روزی دینے والا (بمازا) خدا -
 روزی کا ٹھیکرا - (۱- مذ) معاش و بسر اوقات کا ذریعہ -
 روزی کا مارا در در رووے - پُوت کا مارا بیٹھ کے رووے -
 (مشل) جس کو روزی نہ ملے وہ در در پھرتا ہے - جسے ملے کے لطف
 سے تکلیف پہنچے یا جس کا بیٹا مر جائے وہ گھر میں بیٹھ کر روتا ہے
 روزی کی مارا دلاد کی تکلیف سے بھی بڑی ہے -
 روزی کو رووتے ہیں کھڑے ہو کر مروے کو بیٹھ کر - (مشل) بیکاری
 کا ظم کسی کے مرجانے سے زیادہ ہوتا ہے -
 روزی کھلنا - (۱- محاورہ) رزق کا کوئی ذریعہ بن جانا -
 روزِ مینہ - (رُو - زی - نہ) (ف) ۱- مذ) (۱) روزانہ تنخواہ - روزی مزدوری -
 یومیہ (۲) خوراک جو روزانہ دی جائے (۳) پیشہ - وظیفہ -
 روزینہ دار - (ف) ۱- مذ) (۱) پیشہ خوار (۲) تنخواہ دار - وظیفہ خوار -
 رُو - (Rouge) (رُومگ - ۱- مذ) گلگونہ - غارہ - سُرخ -
 رُو ستا - (رُو س - تا) (ف) ۱- مذ) (۱) لاؤں - دہ (۲) گنوار - دہقان -
 رُو ستائی - (رُو س - تائی) (ف) ۱- مذ) دہقان - دیہات کے رہنے
 والے (۲) خوشامد کرنا -
 رُو سلی - (رُو س - لی) (۱- مٹ) (۱) جگی اور کم فصلی زمین -
 رُو ش - (رُو - ش) (ف) ۱- مٹ) (۱) طور - طریقہ - رفتار - ڈھنگ - وضع
 (۲) مٹل - مانند (۳) بائیکاٹ کی پٹری -
 رُو ش بگڑنا - (۱- محاورہ) اندازِ خراب ہونا - وضع بگڑنا -
 رُو ش نکالنا - (۱- محاورہ) ڈھنگ اختیار کرنا - بائیکاٹ کی پٹری بنانا -
 رُو شن - (رُو - شن) (ف) ۱- صف) چمکتا ہوا تاباں - بظاہر آشکارا - کشادہ -
 رُو شن چوکی - (۱- مٹ) ایک قسم کے باجے والوں کی چوکی -
 رُو شن جنیں - (ف) ۱- صف) حسین - خوبصورت -

رُوشن دال - (ن - ا - مذ) وہ مکھا جو مکان میں روشنی آنے کے لیے بناتے ہیں۔ (رودن -
 رُوشن دل - (رُوشن ضمیر - ف - صفت) عقلمند۔ زود فہم۔ عارف۔ صاحبِ دل۔ صاحبِ بصیرت۔
 رُوشن دماغ - (ن - صفت) عالی دماغ (۲) دکنا پتھر، تاس، بلاس، نسوار
 رُوشن سواد - (ن - مذ) خوش نواں۔
 رُوشن ضمیری - (ف - ا - صفت) عقلمندی۔ فراست (۲) دوسرے کے دل کی بابت معلوم کرنا۔
 رُوشن گہر - (ف - صفت) نیک طینت۔
 رُوشن نگاہ - (ف - صفت) بادشاہوں کے سامنے کوئی شخص حاضر ہوتا تھا تو نعت یہ کلمہ کہتے تھے۔
 رُوشن ہو جانا - (ا - محاورہ) ظاہر ہو جانا۔ تیجہ نکل آنا۔
 روشناسکی - (رُوش - ناک) (ن - ا - صفت) روشنی۔ چمک۔
 روشناسی - (رُوش - نا - ای) (ف - ا - صفت) (۱) نور۔ تجلی۔ روشنی۔ اُجلا۔ (۲) بچنے کی سیاہی۔
 روشناسی اُٹھانا - (ا - محاورہ) روشناسی جذب کرنا۔
 روشنیگ - (رُوش - نگ) (ف - ا - صفت) (۱) ایک دو (۲) شعلی۔
 روشنی - (رُوش - نی) (ف - ا - صفت) (۱) نور۔ چمک (۲) بصارت (۳) رونق۔ آبادی (۴) چراغاں۔
 روشنی دکھانا - (ا - محاورہ) قابلیت دکھانا (۲) روشنی پڑنا۔
 روشنی ڈالنا - (ا - محاورہ) وضاحت کرنا۔
 روشنی طبع - (ف - ا - صفت) ذہانت۔ طباطبی۔
 رُوضہ - (رُوضہ - ح - ا - مذ) (۱) باغ۔ مرغزار۔ سبزہ زار (۲) وہ مقبرہ جس پر گنبد بنا ہوا ہو (۳) کھڑکی کا بنا ہوا کس جس کو عورتیں لیے پھرتی ہیں اور اس میں تصویریں دکھاتی ہیں اور اس کو حضرت بی بی کا روضہ کہتی ہیں۔ جمع : ریاض۔
 رُوضہ خواں - (ح - ف - صفت) معرکہ کر بلا اور مصائب اہل بیت پر گھڑ کر مٹانے والا۔ ابتدا میں صرف کتاب روضہ الشہداء پڑھی جاتی تھی اس وجہ سے روضہ خواں کہنے لگے۔
 رُوضہ رضواں - (ح - ا - مذ) (۱) بہشت۔ باغ۔ فرودس بریں۔
 رُوضہ طیبہ - (ح - ا - مذ) پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا مقبرہ۔
 رُوشن - (رُوشن - ف - ا - مذ) (۱) تیل۔ گھی۔ چکنائی (۲) چمک۔ دُک۔
 روشنی (۳) لگ۔ دانش۔
 رُوشن اُٹھانا - (ا - محاورہ) پالش جاتی رہنا۔ آب و تاب کا زائل ہو جانا۔
 رُوشن پانی میں ڈالنا - (ا - محاورہ) پانی میں تیل ڈالنا۔ ایک قسم کا ٹونکا۔
 رُوشن کی جھڑی گنتی سے تو پانی میں تیل ڈالتے تھے۔
 رُوشن رخ - (رُوشن سیاہ - ف - ا - مذ) کڑا تیل۔
 رُوشن جوش - (ف - ا - مذ) بھار۔ ایک قسم کا قورمہ جو بھگا کر تیار کیا جاتا ہے۔
 رُوشن پڑھانا - (ا - محاورہ) جلا دینا۔ اُجلا کرنا۔ چمکدار کرنا۔

رُوشن دار - (ف - ا - صفت) رُوشن پڑھا ہوا (۲) وہ سالن جس میں گلی زیادہ ڈالا گیا ہو۔
 رُوشن داغ - (ا - صفت) ایک قسم کا کڑھا جس میں گلی یا تیل گرم کرتے ہیں۔
 رُوشن سیاہ - (ف - ا - صفت) اسی کا تیل۔ کڑا تیل۔
 رُوشن فروش - (ف - ا - مذ) تیل بیچنے والا۔
 رُوشن زرد - (ف - ا - مذ) گھی۔ گانے کا گھی۔
 رُوشن قاز - (ف - ا - مذ) راج ہنس کی چربی جو نہایت آبدار اور چکنی ہوتی ہے۔
 رُوشن تاز ملنا - (ا - محاورہ) (۱) مدد دینا (۲) خوشامد کرنا۔ چاہدوسی کرنا۔
 چکنی چھڑی بایش کرنا۔
 رُوشن نعت - (ف - ا - مذ) مٹی کا تیل۔ کر دین اُٹل۔
 روشنی - (رُوش - نی) (ف - صفت) گھی یا تیل سے چھڑا ہوا (۲) پالش یا دانش کی ہوتی شے (۳) چکنی۔
 روک - (ھ - ا - صفت) (۱) آڑ (۲) ممانعت۔ مزاحمت۔ اٹکا ڈر (۳) احاطہ بندی (۴) بند (۵) منافی (۶) آسرا۔ ٹیک (۷) روکنا کا امر۔
 روک تھام - (ا - صفت) (۱) اٹکا ڈر (۲) وہ تدابیر جن سے معاملہ یا بیماری وغیرہ بڑھنے نہ پائے (۳) روک ٹوک (۴) اٹکا ڈر (۵) عارضی بچاؤ۔
 روک ٹوک - (ا - صفت) ممانعت۔ مزاحمت۔ پوچھ گچھ۔ ٹھہرا لینا۔ باز رکھنا۔
 روک روک کے - (ا) ٹھہرا ٹھہرا کے۔ احتیاط سے۔
 روکڑ - (رُوکڑ - ی - رو - کڑ) (ھ - ا - صفت) (۱) روپیہ پیسہ۔ نقد۔ دھن دھلت (۲) تحویل۔ نقد روپیہ جو کسی کی تحویل میں ہو۔
 روکڑ بکری - (ھ - ا - صفت) نقد بکری۔ نقد فروخت۔
 روکڑ بھری - (ا - ہ - ا - صفت) وہ کتاب جس میں نقد کا حساب درج ہو کہیں بک روکڑ یا - (رو - کڑ) یا - (ھ - ا - مذ) مزاجی۔ تحویل دار۔
 روکڑ کن - (رُوکڑ کن - ھ - ا - صفت) (۱) اُپر۔ علاوہ (۲) کسی چیز کی وہ مقدار جو اس کے خریدنے کے بعد بلا قیمت اُپر سے لے لیں۔ روٹنگا۔
 روکنا - (روک - نا) (ھ - صفت) (۱) باز رکھنا کسی فعل سے منع کرنا۔ کسی خیال سے باز رکھنا (۲) راستہ بند کرنا (۳) ٹکانا۔ ٹھہرانا (۴) بات کا ٹکانا (۵) پردہ کرنا (۶) احاطہ کرنا۔ نہ دینا (۷) چمکا ڈرنا۔ وار بچانا (۸) قبضہ کرنا (۹) دیر میں دینا (۱۰) چھیننا۔ اُٹھانا (۱۱) بچانا۔ حفاظت کرنا۔ (۱۲) چھیننا۔ ہنسی کرنا (۱۳) ساکن کرنا۔ حرکت نہ کرنے دینا (۱۴) نسبت کرنا (۱۵) معاملہ قابو سے نہ جانے دینا۔
 روکنا ٹوکنا۔ پوچھنا۔ منع کرنا۔
 روکھ - (ھ - ا - مذ) درخت۔ شجر۔
 روکھا - (رُوکھا - ھ - صفت) (۱) خشک۔ سُوکھا (۲) سادہ (۳) بے رس (۴) پھیکا (۵) خشک دماغ (۶) بدخلق (۷) بے رحم۔ سنگ دل۔ (۸) ٹھہرا (۹) بلا رُوشن۔
 روکھا پن - (ا - مذ) ٹھہرا پن۔ ناہمواری (۲) سختی۔ درستی (۳) غشی۔ سُوکھا۔

رُو لنگ - (Ruling) (رُو۔ لنگ) (انگ - ۱۔ مذ) (۱) سطروں کا نشان (۲) قانونی نظر (۳) قطعی رائے۔ فیصلہ۔
رُو بلی - (رُو۔ بلی) (دھ - ۱۔ مٹ) ایک قسم کی سرخ اور خشک چیز جس کا ہندو تک لگاتے ہیں۔ کنگو۔
رُو م - (دھ - ۱۔ مذ) روٹنگ۔ رُو م۔ مٹے تن۔
رُو م - (دھ - ۱۔ مذ) بازنطینی (عیسائی) مملکت جس کا صدر مقام قسطنطنیہ تھا (۲) ترکوں کی مملکت (۳) ایشیائے کوچک (۴) شہر روم۔
رُو م - (Room) (انگ - ۱۔ مذ) کمرہ۔ حجرہ۔ کونٹری۔
رُو مال سے رومال بدلنا۔ (۱) عمارت، دوستی کا پکا کرنا۔
رُو مال رکھنا۔ (۱) عمارت، ایام جمع میں گدی کا استعمال کرنا۔
رُو مان - (رُو۔ مان) (انگ دوئیس (Romance) کا مرد - ۱۔ مذ) ادب کی وہ صنف جس میں حقیقی زندگی سے غیر متعلق واقعات بیان کیے جاتے ہیں۔ فرضی داستان۔ حیرت انگیز واقعہ۔ عشق و محبت کی داستان۔
رُو مانی - (رُو۔ مانی) (اُر۔ صفت) (۱) رومان سے متعلق (۲) رومان پسند۔
رُو مانی پرست۔ خیالی دنیا میں رہنے والا۔ عیشیہ۔
رُو مین - (رُو۔ مین) (Roman) (انگ صفت) (۱) روم سے منسوب۔ اٹلی کا باشندہ (۲) اردو یا ہندی کی عبارت کو انگریزی حروف میں لکنا۔
رُو مین کیتھولک - (Roman catholic) جیسا کہ ایک فرقہ جو پاپائے روم کو حضرت عیسیٰ کا جانشین مانتا اور اس کی پیروی کرتا ہے۔
رُو مین کیئر کیرکٹر - (Roman Character) انگریزی حروف قبلی۔
رُو می - (رُو۔ می) (دھ - ۱۔ صفت) (۱) روم کا باشندہ (۲) روم کے متعلق۔
رُو نٹا - (رُو۔ نٹا) (دھ - ۱۔ مٹ) (۱) عمارت جو عورتوں کا کام کاج کرنے کو دروازے پر رہتا ہے (۲) وہ کاغذ جس پر مال کی تعداد لانے والے کا نام۔ چیز کا نام۔ محصول درج ہو (۳) پروانہ راہ داری۔
رُو نٹا - (رُو۔ نٹا) (دھ - ۱۔ مذ) (۱) گھنگرو یا جھانجھ کے اندر کے دانے جن کی حرکت سے آواز نکلتی ہے (۲) مہا کے بعد تیسری مرتبہ بیوی کو گھر میں لانا۔
رُو نٹا - (رُو۔ نٹا) (دھ - ۱۔ مٹ) (۱) آنسو بہانا (۲) شکایت کرنا (۳) رگہ کرنا۔
رُو نٹا (۳) سوگ کرنا (۴) داد دینا کرنا۔ فریاد و فغان کرنا (۵) آنسو کرنا۔ تلف شدہ چیز کا رنج کرنا (۶) ذکر پھیلنا۔ افواہ چونا (۷) پھپھٹانا (۸) صدر مٹھانا (۹) گھگھ بیان کرنا (جیسے ڈکڑا کرنا) (۱۰) رونے کی شکل بنانا (۱۱) کنایت، بڑی طرح پڑھنا۔ برآوازی سے بولنا۔ کلام کو بگاڑ کر پڑھنا (۱۲) (دھ - ۱۔ مذ) شکوہ۔ گلہ۔ صدر (۱۳) گریہ و زاری۔ ماتم۔ فوج (۱۴) (دھ - ۱۔ صفت) (۱) بچہ جو بہت روتا ہو (۱۵) ماتم۔ گریہ و زاری پھپھٹانا۔ فوج۔
رُو نٹا آنا۔ (۱) عمارت، دل بھر آنا۔ آنسو چونا۔
رُو نٹا پڑنا۔ (۱) عمارت، ماتم ہونا۔ کہرام مچنا۔
رُو نٹا پھٹنا۔ (۱) عمارت، (۲) گریہ و زاری۔ ماتم۔ کہرام (۳) ماتم کرنا۔ فوج مٹونا۔
رُو نٹا توڑنا۔ (۱) عمارت، (۲) گریہ و زاری۔ ماتم۔ کہرام (۳) ماتم کرنا۔ فوج مٹونا۔

رُو لکھا جواب۔ (۱) مذ صاف انکار۔
رُو لکھا سوکھو کا پیش، خوش اخلاقی کے ساتھ پیش نہ آنے والا بھوکا رہتا ہے (۲) رُو لکھی رُو لکھنے والے کا پیش نہیں بھرتا۔
رُو لکھا سوکھا۔ (۱) عمارت، بے سامن کا۔ بڑا بھلا۔ دال دلیا۔
رُو لکھا ہونا۔ (۱) عمارت، کج خلق ہونا۔
رُو لکھے سوکھے سوکھے۔ (۱) نہایت معمولی غذا۔
رُو لکھی۔ (رُو۔ لکھی) (دھ - ۱۔ صفت) رُو لکھی کی تائید۔
رُو لکھی رُو لکی۔ (۱) وہ رُو لکی جس کے ساتھ کھانے کی کوئی چیز نہ ہو۔
رُو لکھی رُو لکی۔ (۱) مٹ (۲) وہ باتیں جن سے دلکش ظاہر ہو۔
رُو لکھی سوکھی۔ (۱) صفت، بڑی اور فراب غذا۔
رُو لک۔ (دھ - ۱۔ مذ) (۱) دکھ۔ درد۔ بیماری۔ مرض (۲) دبا۔ مری (۳) دبا۔ دبا۔
رُو لک (۴) بنتے۔ شاد (۵) رُو لک (۶) عیب۔ بڑائی۔ نقص۔
رُو لک پالنا۔ رُو لک لگایا۔ (۱) عمارت، (۲) جھگڑے میں بڑنا بچنے میں بڑنا (۳) دشمن کر لینا۔ بڑی عادت ڈال لینا (۴) کوئی مرض پیچھے لگا لینا۔
رُو لک دھوک۔ (دھ - ۱۔ مذ) جھگڑا۔ مصیبتیں۔
رُو لک راج۔ (۱) عمارت، بیماریوں کا سردار۔ بڑا آزار۔ تپ دق۔
رُو لک کاٹنا۔ (۱) عمارت، جھگڑا چکانا۔ تعزیر پاک کرنا۔ دکھ دینے والی چیز دوڑ کرنا۔
رُو لک کا گھر۔ رُو لک کی بڑ۔ (۱) مذ۔ مٹ (۲) دکھ کی پوٹ (۳) بیماری کا باعث۔ بیماری پیدا کرنے والی چیز۔
رُو لک کا گھر کھانسی اور لڑائی کا گھر۔ کھانسی، کھانسی تمام بیماریوں کی بڑ اور ہنسی دل کی لڑائی کا سبب ہے۔
رُو لک ہے۔ (۱) عمارت، جھگڑا ہے مصیبت ہے۔
رُو لگی۔ رُو لگی۔ رُو لگیلا۔ (رُو۔ لگی) (دھ - ۱۔ صفت) (۱) مریض۔
رُو لگی (۲) دھکی (۳) دائم المرض (۴) جھگڑا اور (۵) کوڑھی۔ جذامی۔
رُو ل۔ (دھ - ۱۔ مذ) کتری ہونی پھیلنا ہونا نقص ہو۔
رُو ل - (Role) (انگ - ۱۔ مذ) کارنسٹی۔ مفروضہ کام۔ ایکٹ کا پارٹ۔
رُو ل - (Roll) (انگ - ۱۔ مذ) (۱) دفتر کے فہرست جس میں ترقی اور مارن و مناصب کے لیے ملازموں کے نمبر در نام لگے ہوتے ہیں (۲) فزواسما۔
رُو ل نمبر - (Roll number) (انگ - ۱۔ مذ) دفتر کے حساب سے جو نمبر ہو۔
رُو ل - (Rule) (انگ - ۱۔ مذ) (۱) قاعدہ۔ قانون۔ ضابطہ۔ دستور (۲) لکیر۔ جدول جو کتاب کے حاشیے پر کھینچا جائے (۳) (اُر) لکیریں کھینچنے کا گول ڈنڈا۔ جدول کش۔
رُو ل۔ (رُو۔ لا) (دھ - ۱۔ مذ) (۱) غل شور۔ غوغا (۲) جھگڑا بکھیرا۔ بلوہ۔ بناوت۔
رُو ل ڈالنا۔ رُو ل کرنا۔ رُو ل مچانا۔ (۱) عمارت، غل مچانا۔ پھل ڈالنا۔ غل کرنا۔ بلوہ کرنا۔
رُو ل - (Ruler) (انگ - ۱۔ مذ) جدول کش۔ لکیریں کھینچنے کا گول ڈنڈا۔
رُو ل۔ (رُو۔ ل) (دھ - ۱۔ مٹ) (۱) عمارت، (۲) چیز جو رونے کے بعد رہ جائے۔ چھین۔
رُو ل۔ (رُو۔ ل) (دھ - ۱۔ مٹ) (۱) چھیننا۔ چھانٹنا۔ چھیننا۔

روو سے چور پرانے دھن کو۔ (دہ۔ مثل) کسی کی سخاوت کو دیکھ کر ناراض ہونا یا خیر کے مالی پریشانی مارنا۔ محاسد کی نسبت بھی بولا کرتے ہیں۔
 رو بانسا۔ (رُو۔ بان۔ سا) (دہ۔ صفت) آنکھوں میں آنسو بھرنے والا۔
 رو بانسی۔ (رُو۔ بان۔ سی) (دہ۔ صفت) رو بانسا کا مونث۔
 رو بہت۔ (رُو۔ بہت) (دہ۔ اسم) نرمی۔ تازگی۔ چہرے کی رونق۔
 رو ہٹا۔ (رُو۔ ہٹ۔ ٹا) (دہ۔ ۱۔ مذ) روٹی کا بازار۔
 رو ہٹ۔ (رُو۔ ہٹ۔ دھ) (دہ۔ ۱۔ مذ) (۱) موٹا دھاگا (۲) دکنایتہ۔ صفت (بد صورت۔ بھدا۔

رو چو۔ (رُو۔ چو) (دہ۔ ۱۔ مٹ) ایک قسم کی پھل۔
 روٹی۔ (رُو۔ ای) (دہ۔ ۱۔ مٹ) پنبہ۔ صاف کی ہوئی کپاس (۲) (صفت) ملائم نرم۔ گندگند۔
 روٹی کو منا۔ (۱۔ محاورہ) آنکھوں سے روٹی کو تارتا کرنا۔
 روٹی دار۔ (دہ۔ صفت) وہ کپڑے جن کے اندر روٹی پڑی ہو۔
 روٹی دوٹی۔ (۱) سردی میں دو افراد کا لیٹ کر ادھر لٹ لے کر سونا (۲) روٹی کی گرمی سے سردی میں تسکین ہوتی ہے۔
 روٹی دھتا۔ روٹی دھکتا۔ (۱۔ محاورہ) روٹی کو تانت سے صاف کرنا۔ روٹیوں میں روٹیوں میں جدا جدا کرنا
 روٹی کا پھل۔ دھکتی ہوئی روٹی کا حصہ جو لاقہ سے چوڑا کیا گیا ہو۔
 روٹی کا کبوتر۔ (دہ۔ ۱۔ مذ) لٹکے پھیل میں روٹی کے ٹکڑے اڑتے ہیں اور اس کو روٹی کا کبوتر کہتے ہیں۔
 روٹی کا کالا۔ (دہ۔ ۱۔ مذ) (۱) صاف روٹی کا بنایا ہوا گلا۔ روٹی کا بڑا پھویا۔ (۲) نہایت سفید۔ ملائم اور ہلکی چیز۔
 روٹی کا تول میں دسے رکھی ہے۔ (۱۔ محاورہ) کچھ سنتا ہی نہیں۔
 روٹی کی طرح قوم ڈالنا۔ (۱۔ محاورہ) ایک ایک صیب ظاہر کرنا۔
 دھمپاں اڑا دینا۔
 روٹی کی طرح دھتا۔ (۱۔ محاورہ) دکنایتہ، پُرزے پُرزے اُٹانا۔ خوب مارنا۔ خوب پیٹنا۔

روٹے۔ (رُو۔ اے) (دہ۔ ۱۔ مذ) دیکھے رو۔ چہرہ۔
 روٹے تاباں۔ (دہ۔ ۱۔ صفت) چمکتا ہوا چہرہ۔
 روٹے زمین۔ (دہ۔ ۱۔ مٹ) زمین کی سطح۔
 روٹے کتابی۔ (دہ۔ ۱۔ صفت) قدرے لمبا چہرہ۔
 روٹیدار۔ دیکھے رُوداد (رُو کے تحت) واقع۔
 روٹیدگی۔ (رُو۔ ای۔ دگی) (دہ۔ ۱۔ مٹ) آگن۔ نباتات کا موٹو روٹیدہ۔ (رُو۔ ای۔ دہ) (دہ۔ ۱۔ صفت) بڑھا ہوا۔ آگ ہوا۔ نمونیا۔
 روٹے بغیر ماں دودھ بھی نہیں دیتی۔ (۱۔ مثل) بغیر شفقت کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔
 روٹے دینا۔ (اُر۔ صفت) روکر اظہارِ علم یا خوشی کرنا۔
 روٹیش۔ (رُو۔ ای) (دہ۔ ۱۔ مٹ) (۱) دھات۔ کانسٹی (۲) (صفت) دھات کا پھیل یا کانسٹی کا۔
 روٹیش تن۔ (دہ۔ ۱۔ مذ) دھات کا بنا ہوا۔ مس تفلہ میں ملا ہوا (۲)

رونا تو عمر بھر کا ہے۔ (۱۔ محاورہ) ساری عمر کی مصیبت ہے۔
 رونا دھونا۔ (۱۔ محاورہ) بہت رونا۔
 رونا ڈالنا۔ (۱۔ محاورہ) رونا دھونا۔ خود رونا اور دوسروں کو ڈالنا۔
 رونا رونا۔ (۱۔ محاورہ) دکھڑا بیان کرنا۔ شکوہ کرنا۔
 رونا ہے۔ (۱۔ مقررہ) افسوس ہے۔
 رونے پر آنا۔ رونے پر آمادہ ہونا۔
 رونے سے روزی نہیں ملتی۔ (مثل) افسوس کرنے سے دولت نہیں ملتی
 رونے کا تار باندھنا۔ (۱۔ محاورہ) برابر روئے جانا۔
 رونے کو تھکی ہی اتنے میں آگیا بھائی۔ (مثل) رونے کو تو پہلے ہی تیار تھی۔ عیادت آگیا تو سہا پانے کے زیادہ غل مچا دیا۔
 رونے کی جگہ۔ (۱۔ مٹ) رونے کا مقام۔ افسوس کرنے کا مقام۔
 روئند۔ (اگر بڑی دائرہ (Round) کا جگہ (ہوا) (۱۔ مٹ) (۱) طلایہ۔
 مات کا گشت۔ گشت۔ چہا بیوں یا چوکیداروں کا گشت (۲) وہ لوگ جو عام کی طرف سے اہل شہر کی تنہائی کے لیے رات کے وقت گشت کرتے ہیں۔
 روئند ڈالنا۔ (رُوئند۔ ڈال۔ نا۔ روئند۔ ڈال۔ نا) (دہ۔ صفت) پامال کر دینا۔
 تھوں کے نیسے مل ڈالنا۔

روئندن۔ (روئ۔ ن) (دہ۔ ۱۔ مٹ) پامالی۔ تھوں کے نیسے چکوا جانا۔
 روئندنا۔ (رُوئند۔ نا۔ روئندنا۔ نا) (دہ۔ صفت) پامال کرنا۔ پائوں سے چکنا۔
 روئندھا نا۔ (روئ۔ دھا نا) (دہ۔ صفت) غم زدہ ہونا۔ اُداس ہونا۔
 روئوں۔ (دہ۔ ۱۔ مٹ) سارنگی کی آواز (۲) بچے کے رونے کی آواز۔
 روئنی۔ (رُو۔ ن) (دہ۔ ۱۔ مٹ) (۱) چمک۔ زہبائش۔ خوبی (۲) تازگی طراوت (۳) اُٹا آبادی (۴) چل پھل (دہ۔ ۱۔ صفت) لطف۔ کیفیت۔
 روئنی آجانا۔ (۱۔ محاورہ) آب و تاب پیدا ہو جانا۔
 روئنی افزوز۔ (دہ۔ ۱۔ صفت) روئنی بڑھانے والا۔
 روئنی افزو ہونا۔ (۱۔ محاورہ) بھانجا شریف لانا۔ کسی بڑے آدمی کا آنا۔
 روئنی افزا۔ روئنی فزا۔ (دہ۔ ۱۔ صفت) روئنی بڑھانے والا۔ جلوہ فرما۔
 روئنی بازار۔ (دہ۔ ۱۔ صفت) دکنایتہ مشہور۔ عام۔
 روئنی دار۔ (دہ۔ ۱۔ مذ) (۱) چکیلا (۲) خوب صورت۔ آلاستہ (۳) پر لطف۔
 روئنی محفل۔ (دہ۔ ۱۔ مذ) (۱) محفل کی بہار (۲) دکنایتہ محفل۔
 روئنی (روئنی) (دہ۔ ۱۔ مذ) روئنی۔ روم۔ رُواں۔
 روئنی میں بسنا۔ (۱۔ محاورہ) روئنی روئنی میں سامنا۔
 روئنی (روئنی) (دہ۔ ۱۔ مذ) (۱) آون۔ پشم۔ رُواں۔ روئنی۔ دہ چھوٹے نرم بال جو انسان کے بدن پر ہوتے ہیں۔
 روئنی روئنی دھاتا ہے۔ (۱۔ محاورہ) شکر یہ ادا کرنے کے لیے کہتے ہیں روئنی مٹا ہونا۔ (۱۔ محاورہ) صدر پینچنا۔
 روئنی ٹھکے ٹھکے ہونا۔ (۱۔ محاورہ) سردی یا خون کے باعث جسم کے رُواں کا کھڑا ہونا (۲) سہنا۔ ڈرنا۔ کا پیننا۔
 روئی۔ (روئی) (دہ۔ ۱۔ صفت) رونا (صفت) دکنایتہ۔
 روئی صورت۔ ایسی شکل جس سے رونے کی حالت ظاہر ہو۔ عکس صورت۔

ریت رسم۔ (دہ۔ ا۔ مٹ) عورتوں میں وہ خاص رسمیں جو نکاح کے بعد یا
 دواغ کے وقت دکھا دہن کے ساتھ برتی جاتی ہیں۔
 ریتیا۔ (رے۔ تا۔ دہ۔ ا۔ مذ) دیکھو ریت۔ بالہ۔
 ریت کی دیوار کھڑی کرنا۔ (ا۔ مادہ) نامکن کام کرنے کی کوشش کرنا۔
 ریتل۔ ریتلا۔ (رے۔ تل۔ ریت۔ لا) (دہ۔ صفت) ریت دار۔ ریت والا۔
 برکرا۔ بھر بھرا۔ ریتلا
 ریتلی۔ (ریت۔ لی۔ دہ۔ صفت) ریتلا کی تانینٹ۔ ریت والی۔ کٹر۔ بجز زمین۔
 ریتنا۔ (ریت۔ نا۔ دہ۔ مع) ریتی سے گھنا۔ ریزہ ریزہ کرنا (۲) صاف کرنا
 مذہ کرنا۔ جلا کرنا (۳) رگڑنا (۴) رنگ مال کرنا۔
 ریتی۔ (رے۔ تی۔ دہ۔ ا۔ مٹ) (۱) سوچیں۔ ریتنے کا اوزار (۲) ریتلی زمین
 دریا کے کنارے کی ریتلی زمین۔
 ریتلا۔ (رے۔ تی۔ لا) (دہ۔ صفت) دیکھو ریتل۔ ریتلا اور ریتلا۔
 ریتل۔ (Rate) (انگ۔ ا۔ مذ) نرخ۔ بھاؤ۔ شرح۔
 ریتلا۔ (Retired) (ری۔ ٹا۔ ا۔ مٹ) (انگ۔ صفت) (۱) گوش نشین۔
 خانہ نشین (۲) مدت میز کے بعد ملازمت سے سبکدوش کیا ہوا۔ پنشن یافتہ۔
 ریتلائمنٹ۔ (Retirement) (ری۔ ٹا۔ ا۔ مٹ) (انگ۔
 ا۔ مٹ) (۱) گوشہ۔ تنہائی۔ گنج عزالت (۲) کنارہ کشی۔ سبکدوشی۔
 (ملازمت وغیرہ سے)
 ریتھا۔ (ری۔ ٹھا۔ دہ۔ ا۔ مذ) ایک قسم کا درخت اور اس کا پھل۔
 ریتیل۔ (Retail) (ری۔ ٹیل۔ انگ۔ ا۔ مذ) تڑخ فروش۔
 پھینکل بیچنا۔
 ریتج۔ (ری۔ مٹ) خواہش۔ دلولہ۔ شوق۔
 ریتجن۔ (Region) (ری۔ جن۔ انگ۔ ا۔ مذ) منطقہ۔ خطہ۔ علاقہ۔
 ریتجنل۔ (Regional) (ری۔ جن۔ انگ۔ صفت) علاقائی۔ خطے کا۔
 ریتجھ۔ (دہ۔ ا۔ مٹ) (۱) رغبت۔ چاہت۔ شوق (۲) عادت۔ خصلت۔
 ریتھنا۔ (ری۔ ٹھا۔ دہ۔ مع) (۱) مائل ہونا۔ راغب ہونا (۲)
 عاشق ہونا۔ فریفتہ ہونا۔
 ریتھ۔ (دہ۔ ا۔ مذ) جھاؤ۔ بڑس۔
 ریتھ کا بال بھی بہت ہے (۱) مقولہ بڑے آدمی سے جو مل جائے غلیمت
 ہے (۲) ازخس موئے میں است۔
 ریتج۔ (ری۔ مٹ) (۱) ہوا۔ باد۔ پون (۲) گوز۔ پاد (۲) گھٹیا۔
 دوج الغاصل۔
 ریتجان۔ (رے۔ جان۔ دہ۔ ا۔ مذ) ایک خوشبودار پودا۔ نازبو (۲)
 (مٹ) (۱) ایمان کے بیج۔ تخم ریمان (۳) ایک خوشبودار سہری
 گھاس۔ گل سرخ کے سوا سب پھول (۴) ایک قسم کا خطہ (جانا) شراب۔
 ریتج۔ (ا۔ ا۔ مٹ) (۱) لیکر۔ دیکھا (۲) رستی۔ مین یا پانوں کے رنگ کا
 نشان جو دانتوں میں پڑ جاتا ہے (۳) چول۔ مینسیاد۔ بڑ۔
 طاقت۔ توانائی۔
 ریتجیں۔ (ری۔ ٹج۔ دہ۔ صفت) دہشت اور خوف کے باعث بے طاقت

اور بے حماس ہو جانا۔
 ریتختہ۔ (ری۔ خ۔ ٹ۔ دہ۔ صفت) (۱) پڑا ہوا۔ پھرا ہوا۔ بلا ہوا۔ پریشان (۲)
 (مذ) ٹی ہوئی زبان۔ اُردو جو مختلف زبانوں سے بل کر ہی ہے۔
 (۳) اُردو کے اشعار (۴) مکان بنانے کا مسالا۔ چونا۔ اینٹ۔ کنگر۔
 پتھر وغیرہ (۵) پختہ عمارت۔
 ریتختی۔ (ری۔ خ۔ تی۔ ا۔ مٹ) وہ نظم جو عورتوں کی بولی میں
 کہی جائے۔
 ریتداسی۔ (رے۔ دا۔ ہی۔ دہ۔ ا۔ مذ) ریداس کو ماننے والا فرقہ۔ اس
 فرقے سے متعلق۔ ریداس چماروں کے فرقے کا بانی تھا اور بڑا
 گیانی مشہور تھا۔
 ریتڈ۔ (Red) (انگ۔ صفت) سرخ۔
 ریتڈ کراس سوسائٹی۔ (Red Cross Society) انجمن صلیبِ سرخ
 ایک خلائی جماعت جو جنگ میں زخمیوں کی اور امن میں بیماروں اور غناہوں
 کی خدمت کرتی ہے۔ پاکستان میں اس کا نام ہلالِ احمر ہے۔
 ریتڈر۔ (Reader) (ری۔ ڈر۔ انگ۔ ا۔ مذ) (۱) پڑھنے والا۔ مطالعہ
 کنندہ (۲) شائع۔ پروٹ خواں (۳) شل خواں۔ ناظر جو بے آواز
 پڑھنے پر مقرر ہو (۴) درسی کتاب۔ درسیہ۔
 ریتڈنگ روم۔ (Reading Room) (ری۔ ڈنگ۔ روم۔ انگ۔
 ا۔ مذ) دارالمطالعہ۔
 ریتڈی۔ (Ready) (رے۔ ڈی۔ انگ۔ صفت) (۱) تیار۔ لیس۔ کر لیتہ
 مستعد (۲) حاضر۔ ہیتا۔ موجود۔ بنا بنا یا۔ پہلے سے تیار۔
 ریتڈی میڈ۔ (Ready Made) بنی بنائی۔ پہلے سے تیار چیز
 پہلے سلائے (کپڑے)۔
 ریتڈی ایٹر۔ (Radiator) (رے۔ ڈی۔ اے۔ ٹ۔ انگ۔
 ا۔ مذ) (۱) آلہ حرارت۔ زا۔ گرمیہ جس سے کمرے میں حرارت پھیلتی ہے،
 (۲) گرمی کش حرارت رُبا۔ وہ آد جو موٹر کا انجن ٹھنڈا رکھتا ہے۔
 ریتڈیکل۔ (Radical) (رے۔ ڈی۔ کل۔ انگ۔ صفت) آزاد
 خیال۔ روشن خیال۔
 ریتڈیم۔ (Radium) (رے۔ ڈی۔ ایم۔ انگ۔ ا۔ مٹ) ایک بیش قیمت
 دھات جسے ۱۸۹۵ء میں پیئر اور مادم کیوری نے دریافت کیا۔
 ریتڈیو۔ (Radio) (رے۔ ڈی۔ او۔ انگ۔ ا۔ مذ) لاسکل بلا تار کے
 برقی پیغام وصول کرنے والا آلہ۔ نشری آلہ۔
 ریتڈیو ٹیلیگرام۔ (Radio Telegram) لاسکل پیام۔ بے تار کا پیغام
 ریتڈیو سیٹ۔ وہ ڈبہ یا بکس جس میں ریڈیو کی مشین لگی ہو۔
 ریتڈھ۔ (دہ۔ ا۔ مٹ) کرکری درمیانی ڈبی۔ پھٹکے کے پچھے کی ڈبی۔
 ریتڈھ پینٹنا۔ بڑائی وضع اختیار کرنا (۲) ٹکر پینٹنا۔
 ریتڈھیں ٹکھنا۔ خزیوں کے جسم پر لباس کا ٹکڑے ٹکڑے ہو کر ٹکھنا۔
 ریتڈ۔ (دہ۔ صفت) (۱) بہانے والا درکبات میں استعمال ہوتا ہے۔ جیسے
 اٹک ریز۔ آٹھو بہانے والا (۱)۔ مٹ) (کسی چیز کا ٹکڑا (۲)
 پرند کا چمکنا۔

ریز کرنا۔ (۱) خوشی میں باہم چھپانا۔ نازخوہ کرنا (۲) توتے یا مینا کے پنوں کا بولنے سے پہلے چپیں چپیں کرنا۔
 ریزڈ۔ (Razor) (رے۔ زڈ) (انگ۔ ا۔ مذ) استرا۔ موٹاش۔
 ریزرز۔ (Reserve) (ری۔ زرد) (انگ۔ ا۔ مذ) (۱) ناضل چیز، جو بوقت ضرورت کام آئے (۲) شے محفوظ۔ سرمایہ محفوظ۔ وقت محفوظ (۳) محفوظ فرج، محفوظ یا زائد کھلاڑی جو بوقت ضرورت کسی کی جگہ کھلے۔
 ریزروائر۔ (Reservoir) (رے۔ زرد۔ وا۔ ار) (انگ۔ ا۔ مذ) تالاب۔ ذخیرہ آب۔
 ریزروڈ۔ (Reserved) (رے۔ زرد) (انگ۔ صفت) (۱) محفوظ مخصوص (نشست وغیرہ)۔
 ریزرویشن۔ (Reservation) (رے۔ زرد۔ وے۔ شن) (انگ۔ امث) (نشست کا محفوظ کرنا یا کیا جانا۔
 ریزش۔ (رے۔ زش) (ف۔ امث) (۱) ناک سے پانی بہنے کا مرض۔ زکام۔ نزلہ (۲) گرنا۔ جھڑنا۔
 ریزنگاری۔ (ریزنگ۔ بری) (ڈر۔ امث) ٹوڑہ۔ روپے کے جھتے۔
 ریزنگی۔ (ریزنگی۔ ڈر۔ امث) (۱) ریزگاری (۲) چھین۔ کترن کھڑپن تعمیراتی کی چھانٹ۔
 ریزولوشن۔ (Resolution) (رے۔ زو۔ لیو۔ شن) (انگ۔ ا۔ مذ) قرارداد۔ تجویز۔
 ریزہ۔ (رے۔ زہ) (ف۔ ا۔ مذ) (۱) ذرہ (۲) ٹکڑا (۳) پڑھ۔ قطعہ۔ پارچہ (۴) پختہ (۵) چیز جو دوسری چیز سے ٹوٹ کر گرے (۵) ریشمی کپڑے کا تھان (۶) ٹوپی۔ ڈگر (۷) (ڈر) عمدہ صندوق۔
 ریزہ چین۔ (ف۔ صفت) ٹکڑے پھیننے والا۔ ٹکڑا۔
 ریزہ چین۔ (ف۔ امث) ٹکڑے چھنا۔
 ریزہ ریزہ۔ ٹکڑے ٹکڑے۔
 ریزہ ریزہ کرنا۔ (وا۔ محاورہ) ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔
 ریزہ قلم۔ (ف۔ ا۔ مذ) قلم کا تراشہ۔
 ریزیدنٹ۔ (Resident) (رے۔ زی۔ ڈنٹ) (انگ۔ ا۔ مذ) برطانوی راج میں وائسرائے کا ایجنٹ بریاستوں میں رہتا تھا۔
 ریزیدنسی۔ (Residency) (رے۔ زی۔ ڈن۔ سی) (انگ۔ امث) وہ جگہ جہاں ریزیدنٹ رہتا تھا۔
 ریس۔ (Race) (انگ۔ ا۔ امث) (۱) دوڑ۔ مسابقت (۲) گھڑ دوڑ۔
 ریس کورس۔ (Racecourse) (ڈوڑ کا پتھر۔ میدان۔ گھڑ دوڑ کا)۔
 ریس۔ (رے۔ امث) [برابری۔ ہم چشی (۲) رشک (۳) حرص۔ ہوس۔
 ریس بھلی ہوس بڑی (رشک) اچھا اور صد بڑی چیز ہے۔
 ریسٹ۔ (Rest) (انگ۔ ا۔ مذ) استراحت۔ آرام۔ بند۔
 ریسٹ ہاؤس۔ (Rest House) (انگ۔ بھگور۔ قیام گاہ۔
 ریسٹورنٹ۔ (Restaurant) (ریس۔ ڈ۔ رنٹ) (انگ۔ ا۔ مذ)

ہوٹل۔ طعام خانہ۔
 ریسرچ۔ (Research) (ری۔ سرچ) (انگ۔ امث) تحقیق۔ علمی تحقیق۔
 ریسٹان۔ (ریس۔ ان) (ف۔ امث) (۱) رسی۔ ڈوری۔ سوت۔ دھالا۔
 ریسیور۔ (Receiver) (رے۔ سی۔ وڈر) (انگ۔ ا۔ مذ) (۱) آواز گیر آواز وصول کرنے والا (آدم) (۲) ٹیلی فون کا وہ آدم جس سے آواز سنی دیتی ہے (۳) کسی مقررہ یا دیوالیے کے جائداد کا سرکاری نگران۔
 ریش۔ (ف۔ امث) ڈاڑھی۔ مرد کے چہرے کے بال۔ خط۔
 ریش بابا۔ (ف۔ ا۔ مذ) انگور کی ایک قسم۔
 ریش بچہ۔ (ف۔ ا۔ مذ) ٹھوڑی کے بال۔
 ریش بختہ۔ (ف۔ صفت) مذاق۔ ٹھٹھا۔
 ریش قاضی۔ (ف۔ ا۔ امث) (۱) قاضی جی کی ڈاڑھی (۲) بھنگ چھاننے کا کپڑا۔ بھنگ یا مشراب کی صافی۔
 ریش گاڈ۔ (ف۔ صفت) (۱) بے وقوف۔ احمق (۲) لالچی۔
 ریش۔ (ف۔ ا۔ مذ) (۱) زخم (۲) (صفت) زخم کرنے والا (آدم) میں مرنے کی حالت میں استعمال ہوتا ہے جیسے دل ریش۔
 ریشگی۔ (ف۔ امث) ٹو۔ آگن۔ نشوونما۔ چھوٹنا۔
 ریشٹیل۔ (ریش۔ ٹیل) (ڈر۔ صفت) بڑی اور لمبی ڈاڑھی والا (۲) دھیرا۔
 ا۔ مذ) زبور میں ایک فرشتہ جس نے حضرت آدم کو تسلیم دی تھی۔
 ریشم۔ (رے۔ شم) (ف۔ ا۔ مذ) (۱) ایشیم کا مختلف۔ تار جو ریشم کا کپڑا کرنے کی شکل میں بناتا ہے (۲) اس تار کا کپڑا۔ حریر۔
 ریشم کی گانٹھ۔ (امث) ریشم کے تار کی گن جو بڑی شکل سے نکلتی ہے۔
 ریشم کے پھتے۔ (۱) ریشم کے دھاگوں کا گٹھا (۲) ایک قسم کی مٹائی جو ریشم کے دھاگوں کی طرح ہوتی ہے (۳) (صفت) ریشم سا سلطام اور جکنا۔ بہت ہی نرم۔
 ریشمی۔ (ریش۔ می) (ڈر۔ صفت) ریشم کا بنا ہوا۔ حریری۔
 ریشہ۔ (رے۔ شہ) (ف۔ ا۔ مذ) (۱) ریش درخت کی (۲) پھونٹا۔ سوت کا تار (۳) پھلوں کے تار (۴) نس۔ روگ۔
 ریشہ خطی۔ (۱) ایک دوا (۲) دکنی تہ بہت ہنسنے والا۔ خوش۔
 ریشہ دار۔ وہ چیز جس میں ریشہ ہوں۔ پھونٹے۔
 ریشہ دوآنی۔ (ف۔ ا۔ امث) شرارت۔ فساد۔ سازش۔ بوڑھو۔
 ریعان۔ (رے۔ جان) (ف۔ ا۔ مذ) (۱) آغاز جوانی۔ ایشی جوانی (۲) کسی شے کا سب سے بہتر حصہ۔
 ریفارم۔ (Reform) (ری۔ فارم) (انگ۔ ا۔ مذ) (۱) اصلاحات۔ (سیاسی) (۲) اصلاح۔ درست۔ ترقی۔
 ریفارمر۔ (Reformer) (ری۔ فار۔ مر) (انگ۔ ا۔ مذ) مصلح۔ درست کرنے والا۔ اصلاح پسند۔
 ریفارمٹری۔ (Reformatory) (ری۔ فار۔ میٹ۔ ری) (انگ۔ ا۔ امث) تادیب خانہ۔ بچوں کا اصلاحی جیل۔

ریفرشمنٹ (Refreshment) (ری۔ فرش۔ منٹ) (انگ۔ ۱۔ منٹ)۔
 تروتازگی۔ آسائش (۲) جو شے تفریح کے لیے کھائی پی جائے۔
 شربت وغیرہ۔
 ریفرشمنٹ روم (Refreshment Room) (ہومل۔ تہوہ خانہ۔
 وہ جگہ جہاں کچھ کھایا پیا جائے۔
 ریفری (Referee) (رے۔ ف۔ ری) (انگ۔ ۱۔ مذ) حکم۔ بیج۔
 (خصوصاً کھیلوں کا)۔
 ریفریجریٹریٹر (Refrigerator) (رے۔ ف۔ ری) (ج۔ رے۔ ٹر)۔
 (انگ۔ ۱۔ مذ) خشک ساز۔ بجلی کی الماری جس میں ٹھنڈک دوجہ سے
 چیزیں گلنے سڑنے سے محفوظ رہتی ہیں۔
 ریفلوگی (Refugee) (رے۔ ف۔ یو۔ جی) (انگ۔ ۱۔ مذ) سیاسی یا
 مذہبی تشدد کے باعث غیر ملک میں پناہ لینے والا۔ ہمارے۔
 شرنارتھی۔
 ریک (Rack) (انگ۔ مذ) خانے دار الماری بکڑے رکھنے کی کھوٹا
 ریکارڈ (Record) (ری۔ کارڈ) (انگ۔ ۱۔ مذ) (۱) تحریر۔
 دستاویز۔ مثل۔ فز۔ سرکاری روداد (۲) تاریخی دستاویز۔ یادگار۔
 ماثر۔ آثار (۳) اعمال نامہ۔ کارنامہ۔ کسی چیز میں بہترین کارنامہ۔
 بہترین کرتب (۴) گراموفون کی پلیٹ۔
 ریکارڈ ٹوٹنا۔ (۱) محاورہ) پہلی مثالوں کو توڑ کر نئی مثال قائم کرنا۔
 ریکارڈ کرنا۔ (۱) محاورہ) تحریر کرنا۔ لکھنا۔
 ریکارڈ آفس (Record Office) (مافظ خانہ۔ دفتر۔
 ریکارڈ کیپر (Record Keeper) (مافظ دفتر۔ سرکاری
 کاغذات کا محافظ۔
 ریکان (رے۔ کان) (ج۔ ا۔ مٹ) وہ زمین جو دریا کے پانی کی
 پہنچ سے باہر ہو۔
 ریکٹ (Racket) (رے۔ کٹ) (انگ۔ ۱۔ مذ) ٹینس وغیرہ کا بالہ
 ریکٹر (Rector) (ریک۔ ٹر) (انگ۔ ۱۔ مذ) (۱) محلے کا پادری۔
 (۲) جامعہ یا مدرسے کا صدر۔ ناظم۔ شیخ۔
 ریکھ (ریکھا۔ رے۔ کھا) (ج۔ ا۔ مٹ) (۱) لکیر۔ تحریر۔ نشان۔
 خط (۲) قسمت کا لکھا۔ تقدیر۔ بھاگ۔ بخت۔ نصیب۔
 ریکھاگنت (ج۔ ا۔ مٹ) (۱) لکیر۔ تحریر۔ عقیدت۔
 ریک۔ ف۔ (۱) مٹ) (۱) ریت۔ بالو۔ مہراب۔
 ریک رواں (ف۔ صف) اڑنے والی ریت۔
 ریک مال (ف۔ ا۔ مذ) ایک قسم کا کھردرا کاغذ جس سے لکڑی
 اور دھات وغیرہ کو صاف کرتے ہیں۔
 ریک ماہی۔ ریت کی پھلی۔ مستفرد۔
 ریگستان (رے۔ گس۔ تان) (ف۔ ا۔ مذ) رست کا ملک۔ ریٹلا میدان۔ صحرا۔
 ریگولیٹر (Regulator) (انگ۔ مذ) گھڑی کا شکن۔ کسی چلنے والے
 آلے کی رفتار گھٹانے یا بڑھانے کا آلہ۔
 ریگولیشن (Regulation) (انگ۔ مذ) قاعدہ۔ تازن۔ مضابطہ۔

ریل (Reel) (انگ۔ ۱۔ مٹ) پھرکی۔ پھپک۔
 ریل (Rail) (انگ۔ ۱۔ مٹ) (۱) لہسے کی پٹری (۲) ڈار (۳) ریل گاڑی۔
 ریل (رے۔ لا) (ج۔ ا۔ مذ) (۱) رڈ۔ پانی کا پڑھاؤ۔ طغیان۔ سیلاب۔
 (۲) دھکا (۳) دھار (۴) بیڑ۔ ہجوم۔
 ریل پیل (ج۔ ا۔ مٹ) (۱) دھکم دھکا۔ دھکا پیل (۲) بہتات۔ کثرت۔
 زیادتی۔ بھرار۔
 ریلٹا (ریل۔ نا) (ج۔ مٹ) دھیلنا۔ سرکانا۔ دوڑانا۔ چلانا۔ دھکا دینا۔
 ریلوے (Railway) (ریل۔ وے) (انگ۔ ۱۔ مٹ) (۱) ریل
 کی سڑک (۲) ریل کا ٹکڑا۔
 ریل (رے۔ ری) (انگ۔ ۱۔ مٹ) (۱) فوج یا اسکادٹوں
 کا اجتماع۔
 ریٹے (ری۔ یے) (انگ۔ ۱۔ مذ) کسی دوسرے ریڈیو سٹیشن کے پروفگرام
 کو نشر کرنا۔ کسی جگہ وغیرہ کی کارروائی کو ریڈیو سٹیشن تک پہنچانا۔
 اور پھر وہاں سے نشر کرنا۔
 ریٹیز (Release) (ری۔ لیز) (انگ۔ ۱۔ مٹ) (۱) آزاد کرنا۔ چھوڑ دینا۔
 جانے دینا (۲) سینما کی فلم پہلی بار دکھانا۔
 ریٹیف (Relief) (ری۔ لیف) (انگ۔ ۱۔ مٹ) (۱) مدد (۲) آرام سکون
 ریٹیف فنڈ (Relief Fund) (۱) سرمایہ اعاد (۲) امدادی رقم۔
 ریم (رے۔ مٹ) (۱) مادہ جو ذروں وغیرہ سے نکلے۔
 ریمارک (Remark) (ری۔ مارک) (انگ۔ ۱۔ مذ) رائے زنی۔
 قیل و قال۔ رائے۔ قول۔
 ریمانڈ (Remand) (ری۔ مانڈ) (انگ۔ ۱۔ مذ) مزید تفتیش تک
 حوالات میں رکھنا۔ باز حراست۔ حراست مزید۔
 ریمانڈر (Reminder) (ری۔ ما۔ ٹن۔ ڈر) (انگ۔ ۱۔ مذ) یاد دہانی
 تاکید۔ چیتاؤنی۔
 ریمیشن (Remission) (انگ۔ مٹ) (۱) معافی۔ سزا یا مالگاری وغیرہ کی
 ریمیا (ری۔ می۔ آ) (ف۔ ا۔ مٹ) ایک فرضی علم جس کا جاننے والا
 جہاں چاہے جا سکتا ہے۔
 رین (ج۔ ا۔ مٹ) (۱) رات۔ شب۔
 رین بسیرا (ج۔ ا۔ مذ) (۱) رات کا ٹنا۔ شب باشی (۲) رات بسر کرنے کی جگہ۔
 رین چین (ج۔ ا۔ مٹ) رات کے مزے یا عیش (۲) امن چین کی زندگی
 رینٹ (Rent) (انگ۔ ۱۔ مذ) کرایہ (مکان۔ دکان وغیرہ)۔
 رینٹ کنٹرولر (Rent Controller) (مکان۔ دکان کا کرایہ
 منتظم کرنے والا نیز مالک مکان اور کرایہ دار کے تنازعات کا فیصلہ
 کرنے والا سرکاری افسر۔
 رینٹ (ج۔ ا۔ مٹ) (۱) ٹاک کا سفید لیس دار مادہ۔ ٹاک کی غلاطت۔
 رینج (Range) (انگ۔ ۱۔ مذ) (۱) قطار۔ صف۔ سلسلہ (۲) پانڈ
 ماری کا میدان (۳) حلقہ۔ مقام۔ دائرہ۔ رقبہ۔ حدود۔ حد بندی (۴)
 مار۔ ناصلا (مذوق کا)۔
 رینجر (Ranger) (رین۔ جر) (انگ۔ ۱۔ مٹ) سوار (سوار فوج)۔

(۱) بزرگ - معظم - محترم - مقدس (۲) عیسائی پادریوں کا خطاب -
(مخفف) ر (Rev)
ریوٹر - برے - ڈک (۱) - مذکورہ کیوں کا لکھ - پھیڑوں کا نول -
ریوٹری - در - یو - بڑی (۱) - مذکورہ (۱) - مشیر یعنی جو شکر یا گل کے قوام سے
بنائے ہیں اور اس پر تل لگاتے ہیں -
ریوٹری کا کیا الٹا کیا سیدھا - (۱) - (۱) - ہر طرف سے یکساں -
ایک ہی حالت -
ریوٹری کے پھیر میں آنا (پڑنا) - (۱) - (۱) - کسی لالچ یا دھوکے
کے سبب مصیبت میں گرفتار ہونا - آفت میں پھنسا (۲) - حیرت
میں آجانا (۳) - ناحق خرچ ذبحہ اچڑنا -
ریوٹریاں سی برٹ جانا - (۱) - ساری آمدنی فوراً خرچ ہو جانا -
ریوٹول - برے - دل (۱) - مذکورہ (۱) - پالتو کبوتروں کا جنگل میں جا کر دانہ
چلنا -
ریوٹولیا - برے - دل - یا (۱) - مذکورہ (۱) - پالتو کبوتر جو جنگل میں جا کر دانہ کھانے
کے بعد واپس آئے -
ریونڈ - برے - ڈنڈ (۱) - مذکورہ (۱) - ایک پودا -
ریونڈ چینی - (۱) - چین کا ریونڈ (۲) - ایک دست آور دوا -
ریونیو - (Revenue) برے - برے - نو (۱) - مذکورہ (۱) - مالدار لگان -
ریونیو آفیسر - (Revenue Officer) افسر مال -
ریویو - (Review) برے - ویو (۱) - مذکورہ (۱) - تبصرہ - تنقید -
(۲) - معائنہ افواج -
ریویر - (ری - ری - ری - ری - ری) (۱) - مذکورہ (۱) - شیش -
ریویر - (۱) - مذکورہ (۱) - ایک قسم کی کھاری نئی - شور دار ریتا جو اکثر شکر
صاف کرنے کیڑا دھونے اور صابن بنانے کے کام آتا ہے -
کھاری سہی -
ریہرسل - (Rehearsal) بری - ہر - سل (۱) - مذکورہ (۱) -
حفظ کیا ہوا بیان سنانا (۲) - ڈرامے وغیرہ سے پہلے مشق کرنا -
ریہرٹ - (برے - ہرٹ) (۱) - مذکورہ (۱) - بجز زمین جس میں شور ہو - بجز زمین -

ریہندھنا - (ریہندھ - نا) - (۱) - مص - پکانا - اُباننا - کھانا تیار کرنا -
ریہندی - (ریہندی - ریہندی - ریہندی - ریہندی) (۱) - مٹ (۱) - مٹا سنا
یا پھوٹ - پوری (۲) - خرپوزے کے بچوں کا لکھا -
ریہندیئر - (Reindeer) (ریہندیئر - ریہندیئر) (۱) - مذکورہ (۱) - ایک قسم کا ہرن
جس کو قطبی ممالک میں گاؤں کے آگے جوتے ہیں -
ریہیں بریں - (۱) - (۱) - مٹ (۱) - بچوں کے رونے کی آواز - (۲) - سارنگی کی آواز -
(۳) - مسلسل باریک آواز - روں - روں -
ریہنگ - (Rank) (۱) - مذکورہ (۱) - منصب - مرتبہ - درجہ -
ریہنگ اینڈ فائل - (Rank and File) (۱) - عام سپاہی - فوجی
(۲) - (مجازاً) عام -
ریہنگ - (۱) - (۱) - مٹ (۱) - مٹ (۱) - ڈھینچوں - ڈھینچوں -
ریہنگ - (ریہنگ - نا) - (۱) - مص (۱) - گدھے کا بولنا -
ریہنگ - (۱) - (۱) - مٹ (۱) - ایک قسم کا باریک کپڑا - تن زیب - شبنم -
باریک ٹیل -
ریہنگ - (ریہنگ - نا) - (۱) - مذکورہ (۱) - گدھے کا پتہ (۲) - جانور کا ڈبلا پتلا
چھوٹا پتہ -
ریہنگ - (ریہنگ - نا) - (۱) - مص (۱) - کیڑوں کا چلنا - حشرات الارض کا
چلنا (۲) - آہستہ آہستہ چلنا - کھٹ کھٹ کر چلنا -
ریہنگی - (ریہنگ - نی) - (۱) - مٹ (۱) - جرقہ الٹا - ایک درد جو چوڑوں
سے اٹھ کر ٹخنوں تک پہنچتا ہے (۲) - جھٹ کھٹا -
ریہنگی - (ریہنگ - نی) - (۱) - مٹ (۱) - رنگ (۲) - رنگ دینا (۳) - پھلوں
یا پھولوں سے رنگ نکالنا جیسے کسم سے (۴) - چھوٹی دیوار جو قلعے
کے گرد بناتے ہیں اور اس میں چھوٹے چھوٹے سوراخ رکھتے ہیں -
دھ (۱) - مذکورہ (۱) - پرنڈ جو راتوں کو بولتا ہے -
ریہنگی ٹیل - تمام رات چھانے والا ٹیل - ٹیل شب کہنگ -
ریہنگی پڑھانا - (۱) - کسم کا رنگ نکالنے کے لیے پڑنے میں ہانڈھ کر لگانا
ریوالور - (Revolver) (بری - وال - ور) (۱) - مذکورہ (۱) - فیر کا پستول -
ریورنڈ - (Reverend) (برے - برے - برے) (۱) - مذکورہ (۱) - صف

ط

ڑ - (۱) - مٹ (۱) - اردو میں ٹسے - فارسی اور عربی میں یہ حرف نہیں ہے - اردو حرف تہی کا یہ پندرہواں حرف ہے - یہ حرف کسی لفظ کے شروع میں نہیں آتا - حساب جمل میں اسے "ذ" کی ایک شکل سمجھ کر اس کے بھی دو سو عدد دیے جاتے ہیں -

ز

ز (زرے) (ع۔ ا۔ مٹ) اُردو کا سولہواں۔ فارسی کا تیرھواں اور عربی کا گیارھواں حرف (۲) حساب الجمد میں اس کے سات عدد مقرر ہیں۔ شمسی حرف ہے۔ اس سے پہلے جوال آتا ہے۔ بولانہیں جاتا اور اس سے اگلا حرف مشدد ہو جاتا ہے جیسے الزابد۔ ہندی اور سنسکرت میں یہ حرف نہیں ہے البتہ ان زبانوں میں یہ جیم کے تلفظ سے بولا جاتا ہے۔ تقویم میں یہ شنبہ اور برج عقرب کی علامت ہے۔

ز ف - حرف جر (ازکا مخفف) شعروں میں استعمال ہوتا ہے جیسے زبیں - زخوردنتہ۔

ز

زا۔ (ف۔ صفت) فارسی مصدر زائیدن کا صیغہ امر۔ اسم مفعول۔ زادہ۔ پیدائش جیسے میرزا یعنی میر زادہ (۱۲۱) اسم فاعل پیدا کرنے والا (مرکبات کے آخر میں استعمال ہوتا ہے جیسے فنذزا۔

زاج۔ (ف۔ ا۔ مذومث) (۱) توتیا۔ ہیرا کیسیں۔ زنگار (۲) بوٹ کی سیاہی (۳) سبزی۔

زاج سفید۔ (ف۔ ا۔ مٹ) سفید چٹکری۔

زاجر۔ (زا۔ جر) (ع۔ صفت) بھڑکنے والا۔ جمع: زواجر۔

زاد۔ زادہ۔ (زا۔ ذ۔ ف۔ صفت) (۱) جنا۔ جنا ہوا۔ پیدائش۔ جنم (۲)

بیٹا۔ اولاد (۳) نسل۔ پیرھی۔ جمع: زادگان۔

زاد بوم۔ (ف۔ ا۔ مٹ) جائے پیدائش۔ جنم بوم۔ وطن۔ دیس۔

زاد۔ (ع۔ ا۔ مذ) قوشہ۔ راستے کا خرچ۔

زاد آخرت۔ (ع۔ ا۔ مذ) آخرت میں کام آنے والے نیک کام۔

زاد راہ۔ (ع۔ ف۔ مذ) قوشہ۔ راستے کا خرچ۔

زاد عقبی۔ (ع۔ ا۔ مذ) نیک عمل جو آخرت میں کام آئے۔

زادگی۔ (زاد۔ گی) (ف۔ ا۔ مٹ) پیدائش (مرکبات میں استعمال ہوتا ہے جیسے شہزادگی)۔

زادی۔ (زا۔ دی) (ف۔ صفت) جنی ہوئی جنی۔ جیسے شہزادی)۔

زار۔ (اگ۔ ا۔ مذ) شاہانِ روس کا لقب۔

زار۔ (ف۔ ا۔ مذ) (۱) جگہ۔ مکان۔ مقام جیسے سبزہ زار (۲) افراط۔ بہتات۔

کثرت۔ ڈھیر جیسے کارزار (۳) نالہ و فریاد (۴) لاغر۔ ضعیف (۵)

ذلیل و خواہ۔ رسوا۔

زار زار (زار و قطار) رونا۔ (ا۔ محاورہ) اٹھ اٹھ آنسو رونا۔ بہت رونا۔

زار نالی۔ (ف۔ ا۔ مٹ) فریاد۔ آہ و نغان۔

زار زبوں۔ (ف۔ صفت) خراب و خستہ۔ ٹمکیں۔

زار و زار۔ (ف۔ صفت) ڈبلا۔ پتلا۔ کمزور۔ ناتواں۔ لاغر۔

زاری۔ (زا۔ ری) (ف۔ ا۔ مٹ) (۱) گریہ۔ رونا۔ پیٹنا (۲) مجز دنیا ز۔

زارینہ۔ (Czarina) (زا۔ ری۔ سن) (اگ۔ ا۔ مٹ) روس کی ملکہ کا خطاب۔

زارغ۔ (ف۔ ا۔ مذ) (۱) کوتا۔ گاک (۲) کمان کے گوشے کی نوک (۳) موسیقی کے ایک راگ کا نام۔

زارغ آبی۔ (ف۔ ا۔ مذ) جل کوآ۔ پن ڈٹی۔ ایک قسم کا آبی پرندہ۔

زارغ کمان۔ (ف۔ ا۔ مذ) کمان کے گوشے کی نوک۔

زارغ کوبی۔ (ف۔ ا۔ مذ) پہاڑی کوآ۔

زال۔ (ف۔ صفت) (۱) بوڑھا۔ سفید بالوں والا۔ بڑھا پھونس (۲) (مذ)

گرمتم کے باپ کا نام

زال دنیا (زناں)۔ (کنایت) دنیا جو کہ بہت قدم سے ہے۔

زال کوزہ پشت۔ (ف۔ ا۔ مٹ) (۱) جھکی ہوئی کمر کی بڑھیا (۲) آسمان۔

زالو۔ (زا۔ نو) (ف۔ ا۔ مذ) (۱) جانچھ (۲) ران (۳) گھٹنا۔

زالو بدلتا۔ (ا۔ محاورہ) جھجک بدلتا۔ بیٹھے ہوئے کھڑے زانو کو نیچا کرنا۔

اور پچھے زانو کو اُچھا کرنا (۲) گھبرا جانا (۳) تملانا۔

زالو بید زانو۔ (ا۔ محاورہ) زانو سے زانو ٹلا کر بیٹھنا۔

زالو پر سر رکھنا۔ (ا۔ محاورہ) نگر اور خرمیں مبتلا ہونا۔

زالو پر سر رکھنا۔ (ا۔ محاورہ) شرمندہ ہونا۔ متشکر ہونا۔

زالو بزر باقہ مارنا۔ (ا۔ محاورہ) (۱) توب کرنا (۲) کمال انسوس کرنا۔

زالو پلوٹس۔ وہ کپڑا جو کھانا کھاتے وقت گھٹنوں پر ڈال لیتے ہیں۔

نپکن۔ (Nipkin)

زالو بیٹھنا۔ (ا۔ محاورہ) انسوس کرنا۔ رنج و الم اور ماتم کی حالت کا ظاہر کرنا۔

زالو توڑنا۔ (ا۔ محاورہ) ادب سے بیٹھنا۔

زالو تولنا۔ (ا۔ محاورہ) گھٹنا بدلتا۔

زالو تہ کرنا۔ (ا۔ محاورہ) بر ادب بیٹھنا۔ متوذب بیٹھنا۔

زالو جمانا۔ (ا۔ محاورہ) پڑھی جانا۔ آسن جمانا۔ گھوڑے پر جم کر بیٹھنا۔

زالو دبا کے۔ (کنایت) پاس بھڑکے۔ بہت قریب۔

زالو سے سر اٹھانا۔ (ا۔ محاورہ) فکر سے فراغت پانا۔

زالو کے تلے دابنا۔ (ا۔ محاورہ) کسی کی چھاتی پر زانو رکھ کر سارے بدن

کا زور دینا۔

زالو سٹنا۔ (ا۔ محاورہ) سواری میں گھوڑے کو دونوں طرف سے زانوؤں

سے رگڑنا تاکہ تیز چلے۔

زالوؤں میں دباننا۔ (ا۔ محاورہ) دونوں زانوؤں سے پکڑ کر پھینکنا۔

زائے ادب نہ کرنا۔ (۱۔ محاورہ) مزب میٹھا۔ شاگرد ہونا۔

زائے تمدت نہ کرنا۔ (۱۔ محاورہ) شاگرد ہونا۔

زانی۔ (زانی۔) (ع۔ ۱۔) مذ۔ زانیہ کا مرد۔

زانیہ۔ (زانیہ۔) (ع۔ ۱۔) مثنیٰ زانیہ کا عورت۔ چھتال۔ فاحشہ۔

زادیہ۔ (زادیہ۔) (ع۔ ۱۔) مذ۔ (۱۔) کونہ۔ گوشہ (۲) (اقیدس) دو خط

مستقیم کے ایک نقطہ پر ملنے سے جو کون پیدا ہوا سے زادیہ کہتے ہیں۔ جمع: زادیات

زادیہ حادہ۔ (ع۔ ۱۔) مذ۔ وہ زاویہ جو زاویہ قائمہ سے چھوٹا ہو۔

زادیہ قائمہ۔ وہ زاویہ جو پورے نونے درجے کا ہو۔

زادیہ منفرجہ۔ وہ زاویہ جو زاویہ قائمہ سے بڑا ہو۔

زادیہ نگاہ۔ (ع۔ ۱۔) مذ۔ وہ زاویہ جو نگاہ اس عمود کے ساتھ بنائے

جو آنکھ سے زمین تک کیجی جائے (۲) سوچنے کا انداز۔ نظر کا انداز۔

زابد۔ (زابد۔) (ع۔ ۱۔) مذ۔ (۱) زمین سے رغبت اور خواہش نہ رکھنے والا

(۲) متقی۔ پرہیزگار۔ جمع: زابدین۔ زباد۔ زابدان۔

زابد خشک۔ وہ عابد جو فانی ہری باتوں کا مستحق سے پابند ہو۔ مگر اس کا دل

روحانی لذت سے محروم ہو۔ وہ عبادت گزار جس کے مزاج میں دکھ پان ہو گیا

زابد کا کیا خدا سے ہمارا خدا نہیں (۱) (مثنیٰ) خدا سب پر کرم فرماتا ہے

خدا سب پر ایک جیسا مہربان ہے۔

زابدہ۔ (زابدہ۔) (ع۔ ۱۔) مثنیٰ پرہیزگار عورت۔

زابدیر۔ (زابدیر۔) (ع۔ ۱۔) صفت چمک دار۔ روش (۲) بلند۔

زادین۔ (ع۔ ۱۔) صفت بھاگنے والا۔ مفرور (۲) بہت موٹا (۳) بہت ڈبلا

(۴) تیز۔ مضبوط (۵) مرنے والا۔

زادینچہ۔ (زادینچہ۔) (ع۔ ۱۔) مذ۔ (۱) جنم پتر۔ کنڈلی۔ وہ کاغذ جو نجومی

لوگ پتے کی پیدائش کے وقت بناتے ہیں (۲) رمل کی شکلیں جو

رمال قرعہ ڈال کر لکھتے ہیں۔ جمع: زادینچگان۔

زادینچہ رہنما (کیجینچہ)۔ (۱۔ محاورہ) (۱) جنم پتر بنا نا (۲) مگن کنڈلی کیجینچہ۔

زادین۔ (زادین۔) (ع۔ ۱۔) صفت (۱) زیادہ۔ فضول (۲) پھاجوا۔ بڑھا ہوا۔ قائلو

زادین المعاد۔ (ع۔ ۱۔) مذ۔ وہ معاملہ جس کی معادہ گری ہو۔

زادین الوصف۔ (ع۔ ۱۔) صفت تعریف سے باہر۔

زادین۔ (زادین۔) (ع۔ ۱۔) مذ۔ یا تری۔ زیارت کرنے والا۔ حاجی۔ حج کو جانے والا۔

زادین۔ (زادین۔) (ع۔ ۱۔) صفت دور ہونے والا۔ کم ہونے والا۔

زادیندہ۔ (زادیندہ۔) (ع۔ ۱۔) صفت پیدا کیا ہوا جینا ہوا۔ جمع: زادیندگان

زب

زباد۔ (ع۔ ۱۔) مثنیٰ ایک قسم کی خوشبو (۲) جنگلی بٹی۔

زبان۔ (زبان۔) (ع۔ ۱۔) مثنیٰ (۱) جھوٹا۔ لسان (۲) بول چال۔ نطق۔

محاورہ۔ بولی۔ بات۔ گفتگو (۳) اقرار۔ قول۔ وعدہ (۴) بیان۔

زبان آب کوڑ سے دھوئی ہونا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) دکانیہ (۲) نہایت

پاکیزہ کلام اور فصیح البیان ہونا۔

زبان آج کھلی سے کل بند (مثنیٰ) زندگی کا کوئی اعتبار نہیں۔

زبان آتش ہونا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) زبان کسی چیز کی خوشگوار ہونا (۲) کسی

مڑے سے واقف ہونا۔

زبان آلودہ ہونا۔ (۱۔ محاورہ) بات کرنا۔ زبان پر کسی بات کا آنا۔

زبان آنا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) بولنے سے واقف ہونا (۲) انداز بیان آنا۔

زبان آور۔ (ع۔ ۱۔) صفت (۱) خوش بیان۔ شیرین زبان (۲) قادر الکلام۔

زبان اڑانا۔ (۱۔ محاورہ) بات چیت اور لب و لہجہ کو نقل کرنا۔

زبان اللٹا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) زبان بدلنا (۲) بولنے پر قادر ہونا۔ بولنا۔

زبان کا مطلب کے موافق بات کہنا۔

زبان اچھٹا۔ (۱۔ محاورہ) زبان کا مطلب نہ بیان کر سکا۔ زبان (۲) لکھنا۔

زبان اولاد ہونا (ایچھٹا)۔ (۱۔ محاورہ) زبان سخت ہو جانا۔ زبان

کا اکر جانا۔

زبان بدلنا۔ (۱۔ محاورہ) بات کہہ کر مگر جانا۔ اقرار سے پھرنا۔

مہد توڑنا۔

زبان بدلنے سے کوچہ بدلنا بہتر ہے۔ (۱) (مثنیٰ) وعدہ وفا نہ کرنے

سے نقصان اٹھانا بہتر ہے۔

زبان بریدہ۔ (۱۔ محاورہ) زبان بستہ۔ (ع۔ ۱۔) صفت چپ۔ خاموش۔

زبان بڑھنا۔ (۱۔ محاورہ) بد زبانی زیادہ ہونا۔

زبان بگاڑنا۔ (۱۔ محاورہ) گویوں کی عادت ہونا۔ زبان خراب ہونا۔

زبان بند۔ (ع۔ ۱۔) صفت تعویذ جو دشمنوں کی زبان بند کر دے۔

زبان بند ہونا۔ (۱۔ محاورہ) کچھ نہ بول سکا۔

زبان بند کرنا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) چپ ہونا (۲) جادو وغیرہ سے اپنے برظاف

کسی کی زبان نہ چلنے دینا (۳) خاموش کر دینا۔ بات نہ کرنے دینا۔

زبان بند کرو۔ (۱۔ مقولہ) چپ رہو مت بگو۔

زبان بند ہونا۔ (۱) چپ ہونا۔ بات نہ کر سکا (۲) زبان ایٹھ جانا۔ گویائی

سلب ہونا (۳) جادو یا تعویذ کے ذور سے کسی کے خلاف کچھ نہ کہہ سکا۔

زبان بندی۔ (ع۔ ۱۔) مثنیٰ بولنے پر پابندی۔ بولنے کی ممانعت۔ خاموشی

زبان پیر۔ (۱) اقرار پر۔ وعدے پر۔

زبان پیر آسکا۔ (۱۔ محاورہ) بیان جو سکا۔ کہہ سکا۔

زبان پر آنا۔ (۱۔ محاورہ) بے کجے بڑھے کہے جانا (۲) بات کہی جانا۔

زبان پر آئی ہوئی بات کاٹ دینا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) بات ناقص

چھوڑنا (۲) خیال میں آئی ہوئی بات نہ کرنا۔

زبان پر انگارہ رکھ دینا۔ (۱۔ محاورہ) زبان چلانا۔ بد زبانی کی سزا دینا۔

زبان پر جاری ہونا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) بولا جانا (۲) مڑنے سے بار بار کوئی

لفظ یا فقرہ نکھنا۔

زبان پر چڑھ جانا (چڑھنا)۔ (۱۔ محاورہ) (۱) درد زبان ہونا۔ کیکہ کلام

ہونا (۲) حفظ ہونا (۳) بولنے کی مشق ہونا۔

زبان پر چھٹی کا دودھ آنا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) دکانیہ (۲) کچھتا نا۔

زبان پر حرف لانا۔ (۱۔ محاورہ) شکایت کرنا۔

زبان پر دھرتا رکھنا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) چھٹنا۔ زبان لگا کر دیکھنا (۲)

تھوڑا سا کھانا۔

زبان پر زبان بدلنا۔ (۱۔ محاورہ) کسی بات پر ذرا دیر تا تم نہ رہنا۔
 زبان پر مسر دینا۔ (۲۔ محاورہ) عمد پورا کرنے پر جان کی بازی لگا دینا۔
 زبان پر فیصلہ ہونا۔ (۳۔ محاورہ) کسی کے کہنے پر جھگڑا ختم ہونا۔
 زبان پر کاٹنے پڑنا۔ (۴۔ محاورہ) زبان خشک ہو جانا۔
 زبان پر لانا۔ (۵۔ محاورہ) کہنا۔ بولنا۔ بیان کرنا۔ ظاہر کرنا۔
 زبان پر مہر ہونا۔ (۶۔ محاورہ) بول نہ سکتا۔ زبان بند ہونا خاموش ہونا۔
 زبان پر نام آنا۔ (۷۔ محاورہ) کسی کا خیال آتے ہی زبان سے نام نکل جانا کسی کا نام لینا۔

زبان پر ہونا۔ (۸۔ محاورہ) اذہر ہونا۔ خوب یاد ہونا۔
 زبان پکڑنا۔ (۹۔ محاورہ) بات کہنے سے روکنا۔ بولنے سے بند کرنا (۱۰)
 نکتہ چینی کرنا عیب پکڑنا۔ حوت گیری کرنا (۱۱) بیچ میں بول پڑنا۔
 زبان پھرنا۔ بولنے کی عادت ہونا۔ زبان کا حرکت کرنا۔
 زبان پھولگی۔ (دنت۔ ۱۔) قدیم ایرانی زبان جس میں زند و اوستا لکھی ہوئی ہیں
 زبان پھوٹنا۔ (۲۔ محاورہ) باتیں کرنے لگنا۔
 زبان پھیرنا۔ (۳۔ محاورہ) زبان بدلنا۔ قول سے مکرنا۔
 زبان پیدا کرنا۔ (۴۔ محاورہ) بولنے کی عادت حاصل کرنا۔ بولنا۔
 زبان تاتوسے (لگانا) لگانا۔ (۵۔ محاورہ) چب ہونا۔
 زبان تھلانا۔ (۶۔ محاورہ) توہی زبان میں باتیں کرنا۔ الفاظ بھیک طور پر
 زبان سے نہ بولنا۔
 زبان ترازو۔ (دنت۔ ۱۔) ترازو کی سوئی۔ وہ ڈوری جو ترازو کی ڈھری
 کے بیچ میں ہوتی ہے۔

زبان تراشنا۔ (۱۔ محاورہ) زبان فصیح بنانا۔ زبان آراستہ کرنا۔
 زبان تر ہونا۔ (۲۔ محاورہ) زبان بولنے کے قابل ہونا۔ زبان کا بیان کرنے
 پر قادر ہونا۔
 زبان (تڑاق پڑاق) تڑ تڑ چلانا (چلنا)۔ (۳۔ محاورہ) جلد جلد بولنا
 چالاک اور بے باکی سے بولتے جانا۔
 زبان نیک لانا۔ (۴۔ محاورہ) کچھ کہنا۔ زبان پر لانا۔
 زبان تلے زبان ہونا۔ (۵۔ محاورہ) کسی بات پر قائم نہ رہنا۔
 زبان (تھامنا) تھمنا۔ (۶۔ محاورہ) چپ رہنا۔
 زبان تھکنا۔ (۷۔ محاورہ) باتیں کرتے کرتے رو جانا۔
 زبان تیز ہونا۔ (۸۔ محاورہ) بہت باتیں کرنا۔ جلد جلد باتیں کرنا۔
 زبان تیغ سے جواب دینا۔ (۹۔ محاورہ) کسی بات کے جواب میں تلوار
 کھینچ لینا کسی بات کے جواب میں جنگ پر آمادہ ہو جانا۔
 زبان ٹوٹنا۔ (۱۰۔ محاورہ) صاف طور پر بولنا۔ صیح طور پر بولنے کی
 عادت پڑنا (۱۱) پچھے کا صاف بولنا۔
 زبان ٹھہرنا۔ (۱۲۔ محاورہ) خاموش ہو جانا۔
 زبان جلی جائے۔ (بد دعا) کہنے والے کی زبان کو تکلیف پہنچے۔
 زبان جتنے ایک بار ماں جتنے بار بار۔ (بشمل) زبان کا آقرا
 ایک ہوتا ہے۔

زبان چھڑ پڑے۔ (بد دعا) زبان نہ رہے۔ بول نہ سکے۔ زبان کٹ کر
 یا نکل کر گر جائے۔

زبان چاٹنا۔ (۱۔ محاورہ) منہ دار چیز کا گرد رنگ منہ لیتے نہ رہنا۔
 زبان چار یا تھکی ہونا۔ (۲۔ محاورہ) بہت باتیں کرنے والا ہونا۔
 زبان دوا ز ہونا۔

زبان چلانا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) جلد جلد باتیں کرنا۔ بہت بولنا (۲) بدزبان
 یا بد تمیزی کی باتیں کرنا۔
 زبان چلائے کی روٹی کھانا۔ (۱۔ محاورہ) چا پوسی کر کے پیٹ پان
 خوشامد در آمد سے روٹی پیدا کرنا۔

زبان چلتی ہوئی ہونا۔ (۱۔ محاورہ) بہت بولنے پر قادر ہونا۔
 زبان حال سے کہنا۔ (۲۔ محاورہ) حالت سے ظاہر ہونا۔ بے ہکے
 حالت سے ظاہر کرنا۔

زبان خامہ۔ (دنت۔ ۱۔) منہ) قلم کا وہ حصہ جس میں شگاف دیتے ہیں۔
 زبان خواب کرنا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) گایاں دینا (۲) زبان سے
 یہودہ الفاظ نکلانا۔

زبان خشک ہونا۔ (۱۔ محاورہ) بہت پیاس ہونا (۲) بہت ہمت
 کرنا (۳) بہت باتیں کرنا۔
 زبان خلق تقارہ خدا۔ (بشمل) جو بات مشہور عالم ہو جائے وہ ہو کر
 ہی رہتی ہے۔

زبان خجری طرح چلنا۔ بہت تیز گفتگو کرنا۔
 زبان داب (کر) کئے بائیں کرنا۔ (۱۔ محاورہ) جبا چبا کر باتیں کرنا۔
 زبان دابنا۔ (۲۔ محاورہ) کہتے کہتے ٹک جانا۔ بات کرنے سے روکنا۔
 زبان دبا کے کہنا۔ (۳۔ محاورہ) آہستہ سے کہنا۔

زبان دال۔ (دنت۔ ۱۔) صفت) کسی زبان کا ماہر۔ واقف زبان۔ کسی زبان
 کو بولی جانے والا۔
 زبان دانستوں (تسلے) میں دابنا۔ (۱۔ محاورہ) کچھ کہہ کر کچھ پھپھانا (۲)
 حیرت کرنا (۳) افسوس کرنا۔

زبان دانستوں سے کاٹنا۔ (۱۔ محاورہ) صفت دیوانہ ہونا۔
 زبان دانی۔ (دنت۔ ۱۔) منہ) زبان کی پورے طور پر واقفیت۔
 زبان دبا جانا۔ (۲۔ محاورہ) کہتے کہتے ٹک جانا۔
 زبان دراز۔ (دنت۔ ۱۔) صفت) (۱) گایاں دینے والا۔ بدزبان (۲)
 محتسب۔

زبان دراز (کرنا) ہونا۔ (۱۔ محاورہ) بہت باتیں کرنا۔ بہت بولنا۔
 (۲) گایاں دینا۔ بدزبان ہونا۔

زبان درازی۔ (دنت۔ ۱۔) منہ) (۱) بدزبانی گستاخی۔
 زبان درست ہونا۔ (۲۔ محاورہ) صیح زبان بولنا۔ تہذیب سے گفتگو کرنا۔
 زبان دسے کر پلٹنا۔ (۳۔ محاورہ) کہہ کر کھجنا۔ وعدہ کر کے انکار کر دینا۔
 زبان دیکھنا۔ (۴۔ محاورہ) زبان کا خیال کرنا۔
 زبان دینا۔ (۵۔ محاورہ) وعدہ کرنا۔
 زبان رگنا۔ (۶) کہہ نہ سکتا (۷) چکھانا۔ بولنے میں روکنا۔

زبان رکھنا۔ (۱- محاورہ) بولنے یا جواب دینے کی طاقت رکھنا۔
 زبان رنگین ہونا۔ (۱- محاورہ) شوخ زبان ہونا۔
 زبان روکنے لگنا۔ (۱- محاورہ) کہتے کہتے گتے ٹوک جانا (۲) بڑا بھلا کہنے سے باز رہنا (۳) دوسرے کو بڑی بات کہنے سے منع کرنا۔
 زبان زد۔ (۱- صفت) مشہور۔ معروف۔
 زبان زد خاص و عام۔ (۱- صفت) ہر ایک کی زبان پر۔ سب میں مشہور۔
 زبان بھینا۔ (۱- محاورہ) بولی سمجھنا۔
 زبان سنبھال کے بولنا۔ (۱- محاورہ) احتیاط سے گفتگو کرنا۔
 زبان سلکھالو۔ (۱- مقولہ) بیہودہ نہ بگو۔ بدزبانی نہ کرو۔
 زبان سوکھنا۔ (۱- صفت) پیاس کی شدت ہونا (۲) تعریف کرتے یا نام لیتے لیتے زبان عاجز آجانا۔
 زبان سے اُف نہ کرنا۔ (۱- محاورہ) (۱) شکایت نہ کرنا (۲) تکلیف کا اظہار نہ کرنا۔
 زبان سے بات نہ ٹکنا۔ (۱- محاورہ) رُعب کے باعث کچھ کہہ نہ سکا۔
 زبان سے بیٹیا بیٹی پراٹے جوتے ہیں۔ (۱- مثل) بدزبانی سے اپنے غیر بن جاتے ہیں۔
 زبان سے پھول جھڑنا۔ (۱- صفت) شہر میں کلام ہونا۔ غیر مناسب باتیں کرنے کے موقع پر بھی طنز اُکھتے ہیں۔
 زبان سے خندق پار۔ (۱- محاورہ) دشمنی ہی دشمنی ہے کچھ نہیں سکتے۔
 زبان سے نام نہ لینا۔ (۱- محاورہ) ذکر نہ کرنا۔ کسی معاملے کے متعلق چپ رہنا۔
 زبان سے نکالنا۔ (۱- محاورہ) (۱) کہنا۔ بیان کرنا (۲) تلفظ کرنا۔
 زبان سے نکلے کوٹھے چڑھی۔ (۱- مثل) بات مٹنے سے نکلے ہی مشہور ہو جاتی ہے۔
 زبان سینا۔ (۱- محاورہ) خاموش رہنا۔ بات نہ کہنا۔
 زبان شمع۔ (۱- صفت) شمع کی ٹو۔
 زبان شیریں ملک گیرمی، زبان طوطی ملک بانگ۔ (۱- مثل) نرم زبانی سے بہت کام نکل جاتے ہیں۔ سخت کلامی سب کو دشمن بنا دیتی ہے۔
 زبان شیشہ۔ (۱- صفت) بوتل کے مٹنے سے عرق یا مشربت وغیرہ نکلنے وقت بندھی ہوئی دھار۔
 زبان طعن کھولنا۔ (۱- محاورہ) لعن طعن کرنا۔
 زبان عاجز ہونا۔ (۱- محاورہ) کچھ کہہ نہ سکا۔ کہنے کی طاقت نہ ہونا۔
 زبان فرفر چلنا۔ (۱- محاورہ) بڑی تیزی سے باتیں کرنا۔ جلد جلد زبان چلنا۔
 زبان قاصر ہونا۔ (۱- محاورہ) زبان عاجز ہونا۔ بات کہنے کی تاب نہ ہونا۔
 زبان قلم کرنا ہونا۔ (۱- محاورہ) زبان لکنا۔
 زبان قینچی (۱- صفت) کسی کی طرح چلنا۔ (۱- محاورہ) (۱) کنا پتہ بہت تیزی سے گفتگو کرنا (۲) لگانا بولے جانا۔
 زبان کا پلٹے کھانا۔ (۱- محاورہ) قول سے مگھنا۔
 زبان کا ٹھوٹھ۔ (۱- صفت) بدزبان۔ گنوار۔
 زبان کا تانکا ٹوٹنا۔ (۱- محاورہ) بدزبان ہو جانا۔

زبان کا چٹکا۔ زبان کا چسکا۔ زبان کا مزہ۔ (۱- صفت) مزے دار چیزیں کھانے کی لذت۔ پنچور پن۔
 زبان کا چٹورا۔ (۱- صفت) وہ شخص جسے لذیذ کھانے کھانے کی عادت ہو۔
 زبان کا کام لاکھ سے لینا۔ (۱- محاورہ) اشارے کرنا۔
 زبان کا میٹھا۔ (۱- صفت) (۱) شیریں زبان (۲) منافق۔ کھوٹا۔
 زبان کاٹ کے پھینک دینا۔ (۱- محاورہ) کوئی فضول بات یا بد ہمدی نہ کرنے کے موقع پر استعمال کرتے ہیں۔
 زبان کاٹنا۔ (۱- محاورہ) (۱) بات کاٹنا۔ بات میں بول پڑنا (۲) کہنے پر چپکنا۔
 زبان دکاٹو کاٹے۔ (۱- محاورہ) بولنے کی سزا دیکھنے۔
 زبان کٹ جاتے۔ (۱- مقولہ) ایک قسم۔
 زبان کرنا۔ (۱- محاورہ) (۱) اسفند کلامی کرنا۔ بڑا بھلا کہنا (۲) وعدہ کرنا۔
 زبان کند ہوئی جاتی ہے۔ (۱- محاورہ) کچھ کہا نہیں جاتا۔ بولنے کی طاقت سلب ہو رہی ہے۔
 زبان کو لیس میں رکھنا۔ (۱- محاورہ) سوچ سمجھ کر گفتگو کرنا۔
 زبان کو کولے لگتی۔ (۱- محاورہ) جب کوئی جواب نہ دے سکے تو کہتے ہیں گونگا ہو گیا ہے۔
 زبان کو لگام دو۔ (۱- محاورہ) چپ رہو۔ سمجھ کر بولو۔
 زبان کو مٹھ میں رکھنا۔ (۱- محاورہ) (۱) زبان کو روکے رکھنا یا بس میں رکھنا (۲) چپ رہنا۔
 زبان کھلنا۔ (۱- صفت) کابولنے لگنا۔ گویائی آنا (۲) بدزبانی کرنا (۳) مٹنے سے رو بات ٹکنا (۴) باتیں کرنے کی طاقت پیدا ہونا۔
 زبان کھلوانا۔ (۱- محاورہ) (۱) بدزبانی میں دلیر ہونا (۲) چھپی ہوئی بات ظاہر کرنا۔
 زبان کھولنا۔ (۱- محاورہ) (۱) کچھ کہنا۔ بولنا (۲) بدزبانی کرنا (۳) گویائی کی قوت حاصل ہونا (۴) عیب نکالنا (۵) لگھڑکھڑ کرنا۔
 زبان کھینچنا۔ (۱- محاورہ) گدڑی کے پیچھے سے زباں نکالنا۔
 زبان کی بات۔ (۱- صفت) کسی خاص شخص کی کہی ہوئی بات۔
 زبان کی سنی کہوں یا تلوار کی سنی کہوں۔ (۱- مثل) صاف صاف کہوں یا منہ بھی کہوں۔
 زبان کی (لوچ) لچک۔ (۱- صفت) لب و لہجہ کی خوبی۔
 زبان کے آگے خندق نہیں۔ کوئی کسی کی زبان بند نہیں کر سکتا۔
 زبان کے آگے کھائی۔ خندق برابر ہے۔ (۱- مثل) جو منہ میں آیا سو بگ دیا۔
 زبان کے (پٹھارے) مزے لینا۔ (۱- محاورہ) انیس اور مزے دار چیزوں کا کھلنا اٹھانا۔
 زبان کیلنا۔ (۱- محاورہ) (۱) فحش یا منتر سے کسی کا منہ بند کرنا۔
 زبان کی گدڑی سے کھینچنا۔ (۱- محاورہ) زبان بڑے نکال دینا۔
 زبان کھس جانا کھسنا۔ (۱- محاورہ) کہتے کہتے زبان تھک جانا۔
 زبان کو ہر باز۔ (۱- صفت) موقی پر سنانے والی زبان۔ (۱) فصیح البیان۔
 زبان کی گدڑی۔ (۱- صفت) (۱) جاسوس۔ پنچر (۲) مصترض۔
 زبان کی گدڑی۔ (۱- صفت) (۱) جاسوس کا کام (۲) اعتراض کرنا بگرفت کرنا۔

زبان یارمن ترکی و من ترکی نمی داغم۔ میرے دوست کی زبان ترکی ہے اور میں ترکی نہیں جانتا۔ جب کسی کی بات سمجھ میں نہ آئے تو کہتے ہیں۔
 زبانہ۔ (ز۔ با۔ ن)۔ (ن۔ ا۔ مذ)۔ (شغلہ۔ نو۔ آگ کی پیک (۲) ترازو کی سواٹی۔
 (۳) صفت (۱) زبان والا (مرکبات میں استعمال ہوتا ہے جیسے دو زبانہ)۔
 زبانہ کش۔ شغلہ بچا لےنے والی۔ شغلہ پیدا کرنے والی۔
 زبانی۔ (ز۔ با۔ نی)۔ (ن۔ صفت)۔ (۱) منہ کی کہی ہوئی (۲) سنی سنائی (۳) ظاہری منہ دیکھنے کی۔ بناوٹ کی (۴) حفظ۔ اُزبر۔

زبانی استیمان۔ (ن۔ ا۔ مذ) وہ استیمان جو تقریر کے ذریعہ لیا جائے۔
 زبانی باتیں۔ (ن۔ ا۔ مٹ) وہ باتیں جو زبان سے کہی جائیں اور ان پر عمل نہ کیا جائے۔

زبانی پڑھنا۔ (۱) محاورہ (۲) حفظ پڑھنا۔ بے دیکھے پڑھنا۔
 زبانی سمجھنے۔ (۱) مذ (۲) اُپریری باتیں۔ زبانی جمع خرچ۔

زبانی جمع خرچ۔ (۱) مذ (۲) عالی باتیں بنانا۔ کچھ نہ کر کے دکھانا۔
 زبانی جمع خرچ کرنا۔ (۱) محاورہ (۲) حرف باتیں ہی باتیں بنانا۔ عمل نہ کرنا۔

زبانی حساب۔ (ن۔ ا۔ مذ) وہ حساب جو لکھ کر نہ کیا جائے۔ ذہنی حساب۔
 زبانی سننا۔ (۱) محاورہ (۲) سننا۔ حفظ سننا۔ لغیر کتاب کے سننا۔

زبانی کہنا۔ (۱) محاورہ (۲) ذکر کرنا۔ بذریعہ گفتگو کچھ سنانا۔
 زبانی لکھنا۔ (۱) محاورہ (۲) کسی کی زبان سے سن کر لکھنا۔

زبانی وعدہ۔ (ن۔ ا۔ مذ) وہ وعدہ جو زبان سے کیا جائے۔
 زبیدہ۔ (ز۔ ب۔ ذ)۔ (۱) ذ۔ (۲) تازہ کھن (۳) ملائی (۴) کسی چیز کا

بہترین حصہ (۴) صفت (۱) چیدہ۔ منتخب۔ برگزیدہ۔
 زبیدۂ الحکما۔ (ن۔ ا۔ مذ) حکیموں میں سے منتخب (۲) ایک ڈگری جو عیبوں کو دبی جاتی ہے۔

زبیدۂ السالکین۔ (ن۔ ا۔ مذ) سالکوں میں برگزیدہ۔ پیروں، صوفیوں اور بزرگوں کا لقب۔

زبیر۔ (ز۔ ب۔ ر)۔ (ن۔ صفت) اُزبر کا مخفف (۱) اُزبر۔ اُونچا۔ بالا (۲) بہتر (۳) زیادہ بڑا (۴) بوجھل۔ گراں (۵) طاقتور۔ زور آور (۶) مذ (۷) فتح۔ وہ چھوٹی سی آبی نیکر

جو کسی حرن کے اُپر آدھے الف کی آواز ظاہر کرنے کے لیے لگائی جائے۔
 زبردست۔ (ن۔ صفت) طاقتور۔ توانا۔ قوی۔ غالب۔

زبردست سب کا جنوائی۔ (۱) اصل (۲) زبردست کا سب حکم مانتے ہیں۔
 زبردست کا ٹھینکا مسرہ۔ (۱) اصل (۲) غالب سے زور نہیں چلتا۔ اس کی

مانتی پڑتی ہے۔
 زبردست کی جو رو سب کی دادی مغرب کی جو رو سب کی جہالی

(۱) اصل (۲) زبردست کی سب عزت اور نفس کی سب توہن کرتے ہیں۔
 زبردست کے بلیوں لبسوے۔ (۱) اصل (۲) قوی ہمیشہ غالب رہتا ہے۔

زبردست مارے اور رونے نہ دے۔ (۱) اصل (۲) اس وقت بولتے ہیں جب کوئی طاقتور زیادتی کر کے شکوہ نہ کرنے دے۔

زبردستی۔ (ن۔ ا۔ مٹ) (۱) جبر۔ ظلم۔ سختی۔ زیادتی (۲) ناحق۔
 زبردستی۔ (۱) محاورہ (۲) غالب ہونا۔ فتح مانا۔ بھاری ہونا۔

زبردست۔ (ز۔ ب۔ ر)۔ (ن۔ ا۔ مذ) ایک قسم کا زبرد۔ ایک مہزنگ کا زردی

زبان لال چونا۔ (۱) محاورہ (۲) بول نہ سکتا۔
 زبان لڑانا۔ (۱) محاورہ (۲) جواب دینا۔ مقابلہ کرنا۔

زبان لڑھکھانا (لغزش کرنا۔ (۱) محاورہ (۲) لغزش کرنا۔ زبان کا گھٹت کرنا۔
 زبان لینا۔ (۱) محاورہ (۲) قرار کرنا۔ حید لینا۔ وعدہ کرنا۔

زبان مروڑنا۔ (۱) محاورہ (۲) زبان ملنا (۳) گھوڑے یا مویشی کو دوا پلانے کے لیے زبان پر مار کر مروڑ دیتے ہیں۔

زبان معجز۔ بیان۔ (ن۔ مٹ)۔ (۱) مٹ (۲) ایسی زبان جس سے نہایت عجیب و غریب مضامین ادا ہوں۔

زبان معال۔ (ن۔ ا۔ مٹ) گفتگو کرنے کی زبان۔ زبان حال کی جند۔
 زبان ہلانا۔ (۱) محاورہ (۲) گستاخی سے بات چیت کرنا۔

زبان ملنا۔ (۱) محاورہ (۲) بولی کا مشابہ ہونا (۳) نظر گفتگو کا ایک جیسا ہونا۔
 زبان منہ سے باہر نکالنا (نکلنا۔ (۱) محاورہ (۲) بہت دوڑنے یا شدت تشنگی سے زبان باہر آنا۔

زبان منہ میں نہ رکھنا (چونا۔ (۱) محاورہ (۲) کچھ نہ کہنا۔ جواب نہ دینا۔
 زبان میں بھدر کر نہ چونا۔ (۱) محاورہ (۲) ایک بات پر قائم نہ رہنا۔

زبان میں روانی ہونا۔ (۱) محاورہ (۲) تیز گفتگو کرنا۔ بیگز کے گفتگو کرنا۔
 زبان میں فرق ہونا۔ (۱) محاورہ (۲) قول کا پابند نہ ہونا۔

زبان میں فضل (لگانا) لگانا۔ (۱) محاورہ (۲) خاموش رہنا۔ نہ بولنا۔
 زبان میں کاسٹے پڑنا۔ (۱) محاورہ (۲) سخت پیاس لگانا۔ زبان کا پیاس سے خشک اور کھردرا ہونا۔

زبان میں گھبلی چونا۔ (۱) محاورہ (۲) تو تو میں کرنے کو جی چاہنا۔
 زبان میں لگام نہیں۔ (۱) محاورہ (۲) بہت منہ چھٹ ہے۔ بدتمیز اور گستاخ ہے۔

زبان میں کوچ ہونا۔ (۱) محاورہ (۲) بات کرتے وقت چھوٹے بڑے کا لحاظ رکھنا۔

زبان نا طقہ۔ (ن۔ مٹ)۔ (۱) مٹ (۲) بولنے والی زبان۔
 زبان نکالنا۔ (۱) محاورہ (۲) زبان منہ سے باہر کرنا (۳) زبان درازی کرنا۔

زبان نکل پڑنا۔ (۱) محاورہ (۲) زبان کا منہ سے باہر نکل آنا۔
 زبان نہ کرنا۔ (۱) محاورہ (۲) چپ نہ رہنا۔ بولے جانا۔

زبان نہ ہلا سکتا۔ (۱) محاورہ (۲) بول نہ سکتا۔ چپ رہ جانا۔
 زبان نہیں رہتی ہے۔ (۱) محاورہ (۲) کہے جاتا ہے۔ بے کہے نہیں مانتا۔

زبان نارنا۔ (۱) محاورہ (۲) وعدہ کرنا۔ جھد کرنا۔
 زبان ہلانا۔ (۱) محاورہ (۲) کہنا۔ بولنا۔ بات کرنا (۳) اشارہ کرنا۔ بھم کرنا۔

مانگنا۔
 زبان ہلانے سے کام نکلتا ہے۔ (۱) مقولہ (۲) تھوڑی سی کوشش سے کام ہوتا ہے۔ سفارش سے مقصد حاصل ہوتا ہے۔

زبان ہلنا۔ (۱) محاورہ (۲) زبان کا حرکت کرنا۔ بولنا۔ کہنا۔
 زبان ہی حلال ہے زبان ہی مردار ہے۔ زبان جو چاہے کہہ

دے حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر دے۔
 زبان ہی ماٹھی چڑھاوے زبان ہی عمر گٹھاوے۔ زبان سے ہی آدمی کی عزت ہوتی ہے اسی سے جان گنواے تنگ نوبت پہنچ جاتی ہے۔

تکلیف پر تکلیف دینا (۲) نقصان یا تکلیف میں طعن و تشنیع کرنا۔
 زخم پکنا۔ (۱) عمارت (۲) زخم میں پیپ پڑ جانا۔
 زخم تازہ ہونا۔ (۱) عمارت (۲) عمارت سے نیا زخم لگنا (۳) کسی نئے حادثے پر برائے نام رخ یا آجانا۔
 زخم جگر۔ (۱) زخم۔ (۲) زخم۔ (۳) زخم۔
 زخم جھیلنا۔ (۱) عمارت (۲) زخم لگنا۔
 زخم جراننا۔ (۱) عمارت (۲) زخم میں خشکی کے سبب سے درد ہونا۔
 زخم پوش۔ (۱) زخم۔ (۲) زخم۔
 زخم خشک ہونا۔ (۱) عمارت (۲) زخم سے پیپ کا نکلنا بند ہونا۔ انگور ہونا۔
 کھرٹہ بند ہونا۔

عامارے کا یاد آجانا۔
 زخموں پر زخم جھیلنا۔ (۱) عمارت (۲) عمارت سے نیا زخم لگنا۔ بہت زخم لگانا۔
 زخموں پر نمک تپاشی کرنا۔ (۱) عمارت (۲) سخت تکلیف دینا۔
 زخموں سے پور ہونا۔ (۱) عمارت (۲) بہت زخمی ہونا۔
 زخموں کی بددھی۔ زخموں کے بارے زخموں کے نشان۔ بہت سے زخم۔
 زخم۔ (۱) زخم۔ (۲) زخم۔ (۳) زخم۔ (۴) زخم۔ (۵) زخم۔
 زخمی۔ (۱) زخمی۔ (۲) زخمی۔ (۳) زخمی۔ (۴) زخمی۔ (۵) زخمی۔
 زخمی جگر۔ (۱) زخمی۔ (۲) زخمی۔ (۳) زخمی۔ (۴) زخمی۔ (۵) زخمی۔
 زخمی دشمنوں میں دم لے تو مرے۔ نہ دم لے تو مرے۔ (مث) (۱) زخمی۔
 ہر طرح مشکل ہے۔ ایسے موقع پر کہتے ہیں۔ جب کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے میں یہی کھان نقصان ہو۔
 زخود رفتگی۔ (۱) زخمی۔ (۲) زخمی۔ (۳) زخمی۔ (۴) زخمی۔ (۵) زخمی۔
 ہونا۔ بے خودی۔

ز

زخم خفیف۔ (۱) زخم۔ (۲) زخم۔ (۳) زخم۔ (۴) زخم۔ (۵) زخم۔
 زخم خنداں۔ (۱) زخم۔ (۲) زخم۔ (۳) زخم۔ (۴) زخم۔ (۵) زخم۔
 زخم خوردہ۔ (۱) زخم۔ (۲) زخم۔ (۳) زخم۔ (۴) زخم۔ (۵) زخم۔
 زخم دامن دار۔ (۱) زخم۔ (۲) زخم۔ (۳) زخم۔ (۴) زخم۔ (۵) زخم۔
 زخم دل۔ (۱) زخم۔ (۲) زخم۔ (۳) زخم۔ (۴) زخم۔ (۵) زخم۔
 زخم دوڑی۔ (۱) زخم۔ (۲) زخم۔ (۳) زخم۔ (۴) زخم۔ (۵) زخم۔
 زخم دینا۔ (۱) عمارت (۲) زخم لگانا۔ صدر پینا نا ضرر پینا نا۔
 زخم زبان۔ (۱) زخم۔ (۲) زخم۔ (۳) زخم۔ (۴) زخم۔ (۵) زخم۔
 زخم زدہ۔ (۱) زخم۔ (۲) زخم۔ (۳) زخم۔ (۴) زخم۔ (۵) زخم۔
 زخم سینا۔ (۱) عمارت (۲) زخم میں ٹانگے لگانا۔
 زخم کا آٹھور۔ (۱) زخم۔ (۲) زخم۔ (۳) زخم۔ (۴) زخم۔ (۵) زخم۔
 زخم کا پانی۔ (۱) زخم۔ (۲) زخم۔ (۳) زخم۔ (۴) زخم۔ (۵) زخم۔
 زخم کا پتھر۔ (۱) زخم۔ (۲) زخم۔ (۳) زخم۔ (۴) زخم۔ (۵) زخم۔
 زخم کا زونا۔ (۱) عمارت (۲) زخم میں پانی نکلنا۔
 زخم کاری۔ (۱) زخم۔ (۲) زخم۔ (۳) زخم۔ (۴) زخم۔ (۵) زخم۔
 زخم کا مسکرانا۔ (۱) عمارت (۲) زخم کے ٹانگے ٹوٹ جانے سے زخم کا بڑھ جانا۔
 زخم کا ہوا دینا۔ (۱) عمارت (۲) زخم کا بہت بڑھ جانا۔
 زخم کو ٹانگے لگانا۔ (۱) عمارت (۲) زخم سینا۔
 زخم کھانا۔ (۱) عمارت (۲) زخمی ہونا۔ عمارت ہونا (۳) صدر اٹھانا۔
 زخم کھلنا۔ (۱) عمارت (۲) زخم کا پھٹ جانا۔
 زخم پھین۔ (۱) زخم۔ (۲) زخم۔ (۳) زخم۔ (۴) زخم۔ (۵) زخم۔
 زخم کے ٹانگے کاٹنا۔ (۱) عمارت (۲) زخم کا مندل ہونے کے بعد زخم کے ٹانگے کاٹ ڈالنا۔

زود۔ (۱) زود۔ (۲) زود۔ (۳) زود۔ (۴) زود۔ (۵) زود۔
 صدر نقصان (۵) نشانے کا سامنا۔
 زود پڑنا۔ زود پڑھنا۔ زود پڑھنا۔ (۱) عمارت (۲) ایسی جگہ ہونا جہاں نشانہ ٹیک لگ جائے۔
 زود پڑنا۔ (۱) عمارت (۲) نقصان ہونا۔ خسارہ ہونا۔
 زود گوب۔ (۱) زود۔ (۲) زود۔ (۳) زود۔ (۴) زود۔ (۵) زود۔
 زودگان۔ (۱) زود۔ (۲) زود۔ (۳) زود۔ (۴) زود۔ (۵) زود۔
 زودگی۔ (۱) زود۔ (۲) زود۔ (۳) زود۔ (۴) زود۔ (۵) زود۔
 جیسے ہوا زدگی۔
 زودن۔ (۱) زود۔ (۲) زود۔ (۳) زود۔ (۴) زود۔ (۵) زود۔
 زودنی۔ (۱) زود۔ (۲) زود۔ (۳) زود۔ (۴) زود۔ (۵) زود۔
 میں آتا ہے جیسے گردن زودنی۔
 زودہ۔ (۱) زود۔ (۲) زود۔ (۳) زود۔ (۴) زود۔ (۵) زود۔
 (۳) بریدہ۔ گلا ہوا۔ کبوتر (۴) ساکن حرف درکبات میں استعمال ہوتا ہے، جمع، رنگان۔
 زودہ حال۔ (۱) زود۔ (۲) زود۔ (۳) زود۔ (۴) زود۔ (۵) زود۔
 نکلن۔ سوگوار۔

ز

زخم لگنا۔ (۱) عمارت (۲) عمارت ہونا۔
 زخم میں انگور آنا۔ (۱) عمارت (۲) زخم پر کھرٹہ آجانا۔
 زخم میں رہتی، صوف بھرتا۔ (۱) عمارت (۲) زخم بھرنے کی مرض سے اس میں کھرا یا روٹی رکھ دینا۔
 زخم سہرا کرنا۔ (۱) عمارت (۲) گھاؤ کو تازہ کرنا۔ صدر پینا نا۔ گزشتہ رخ یاد دلانا۔
 زخم سہرا ہونا۔ (۱) عمارت (۲) گھاؤ کو تازہ ہو جانا (۳) گزشتہ صدر سے یا

زود۔ (۱) زود۔ (۲) زود۔ (۳) زود۔ (۴) زود۔ (۵) زود۔
 زود کا زودہ (۳) سونے چاندی کے تار یا کالا تون۔
 مال و متاع (۳) پھول کا زودہ۔

زرد آمدنی - (ف۔ ا۔ مٹ) (۱) آمدنی، مانگداری (۲) فائدہ - نفع۔
 زردا کھر - (ف۔ ا۔ مذ) سونا۔
 زردا اصل - (ف۔ ا۔ مذ) اس المال - اصل سربا یہ - سربا یہ یا رقم جو کسی کام پر لگانے جائے۔ بول۔
 زردا فشان - زرد فشان - (ف۔ مٹ) وہ کاغذ جس پر سونے کے درق ریزہ ریزہ کے چھڑکے ہوتے ہیں اور جو تقریبات کے خطوط میں استعمال کیا جاتا ہے (۲) چمک دار۔
 زردا امانت - (ف۔ ا۔ مذ) وہ روپیہ جو کسی کے پاس امانت رکھا جائے۔
 زردا اندوہ - (ف۔ ا۔ مٹ) سونے کا طبع کیا ہوا۔
 زردا باف - (ف۔ ا۔ مذ) (۱) زرد بفت بنانے والا تاروں کا بنا ہوا کتواب۔
 زردا بافی - (ف۔ ا۔ مٹ) سونے کے تار بنانا۔ زرد بفت بنانا۔
 زردا بافی - (ف۔ ا۔ مذ) بقایا - روپیہ جو بچ جاوے۔
 زردا بالائی - (ف۔ ا۔ مذ) (۱) وہ رقم جو علاوہ تنخواہ کے ملے (۲) رشوت۔
 زردا برسر (ولاد) (پولاد) (نہی نرم شود) (نیل) روپیہ دینے سے سگدل بھی لیتا جاتا ہے۔
 زردا برستا - (۱) محاورہ) روپے کی بارش ہونا - بے حد روپیہ ملنا۔
 زرد بفت - (ف۔ ا۔ مذ) کتواب - ایک کپڑا جو سونے اور ریشم کے تاروں سے بنتے ہیں۔
 زرد بل نہ زور بل - (۱) ایشل) نہ روپیہ ہے نہ بدن میں طاقت۔
 زرد بھیانہ - (ف۔ ا۔ مذ) وہ روپیہ جو سودا پکا کرنے کی خاطر پیشگی دیا جائے۔
 زرد پاک عیار - (ف۔ ا۔ مٹ) خالص سونا - کھرا سونا۔
 زرد پرست - (ف۔ مٹ) لالچی - بخیل - روپے کا غلام۔
 زرد پھیلا یا اور کار بر آیا - (۱) ایشل) روپیہ خرچ کرنے سے کام ہو جاتا ہے۔
 زرد پیشگی - (ف۔ ا۔ مذ) وہ روپیہ جو کسی چیز یا عفت کے عوض پہلے ہی دے دیا جائے۔
 زرد تیار - (ف۔ مٹ) وہ چیز جو سونے کے تاروں سے بنائی گئی ہو۔
 زرد پو فیئر - (ف۔ ا۔ مذ) ناقص روپیہ۔
 زرد من - (ف۔ ا۔ مذ) وہ روپیہ جو قیمت میں ملے۔
 زرد جھڑی - (ف۔ ا۔ مذ) (۱) خالص سونا - جعفر برکی وزیر ماروں رشید کی طرف منسوب جس نے صاف سونے کا استعمال کیا تھا۔
 زرد (خالص) خشک - (ف۔ ا۔ مذ) وہ سونا جس میں ذرا بھی ملاوٹ نہ ہو۔
 زرد خرید - (ف۔ مٹ) روپیہ دے کر خریدنا ہوا (غلام یا لونڈی) شیدائی۔
 زرد خیز - (ف۔ مٹ) سرسبز - شاداب - سیر حاصل۔
 زرد خیز کرنا - (۱) محاورہ) کھا دال کر پیداوار کے قابل بنانا۔
 زرد خیزی - (ف۔ ا۔ مٹ) سرسبز - شادابی۔
 زردا دن و در و سر خریدن (ایشل) مال کا مال کھونا اور عفت کی زحمت لینا۔
 زردا در - (ف۔ مٹ) دولت مند - مال دار۔
 زردا در کا سودا سے لے کر کا خدا حافظ - پر دار پڑے اڑتے بے پر کا خدا حافظ - (ایشل) میر آدمی جو چاہے لے سکتا ہے

غریب کہ نہیں کر سکتے - غریبوں کا والی بس اللہ ہے۔
 زردا مردنا ہر گھر میں رہے کہ باہر - (ایشل) زر سے مرد کی حکومت اور رعب ہے - گھر میں بھی اور باہر بھی۔
 زردا وز - (ف۔ ا۔ مذ) (۱) زری کا کام کرنے والا (۲) وہ چیز جس پر زری کا کام ہو۔
 زردا وزی - (ف۔ ا۔ مٹ) سلسلے سے تارے اور کلاہتوں سے کام کرنا۔ سلسلے سے تارے کا کام۔
 زردا وسست - (ف۔ مٹ) روپے سے محبت کرنے والا - بخیل - لالچی۔
 زردا ڈگری - (ف۔ ا۔ مذ) وہ روپیہ جو عوی کرنے والے کو عالت دلانے۔
 زردا زری کشدان (ایشل) روپیہ روپے کو کھینچتا ہے - جن کے پاس دولت ہوا نہیں اور دولت ملتی ہے۔
 زردا زین - (ف۔ ا۔ مذ) وہ روپیہ جس کے لیے کوئی چیز رہیں رکھی جائے۔
 زردا زین - (ف۔ مٹ) زرد زین۔
 زردا زیندہ در جہاں بیج - (ایشل) دنیا میں روپیہ روپے کو کھینچتا ہے اور خزانہ خزانے کے۔
 زردا زمین، زن جھگڑے کی جڑیں - (ایشل) ان تینوں کی وجہ سے خراب ہوتے ہیں۔
 زردا زور خدا داد ہے - (ایشل) یہ چیزیں آدمی خود حاصل نہیں کر سکتا۔
 زردا مسرخ - (ف۔ ا۔ مذ) (۱) سونا۔ (۲) ایشل) (۳) کھنکے تاش کا ایک ٹک۔
 زردا سفید - (ف۔ ا۔ مذ) (۱) چاندی (۲) روپیہ۔
 زردا سے قول کر لینا - (۱) محاورہ) کسی چیز کے ہم وزن سونا یا چاندی دے کر خریدنا۔
 زردا ضامنی - (ف۔ ا۔ مذ) ضمانت کا روپیہ۔
 زردا طلا عیار - (ف۔ مٹ) خالص سونا۔
 زردا فضل - (ف۔ ا۔ مذ) فالتو روپیہ - بقایا۔
 زردا قرض - (ف۔ ا۔ مذ) قرض کا روپیہ۔
 زردا قسب - (ف۔ مٹ) (۱) کھونا سونا کھونا روپیہ۔
 زردا کا جوتا - (۱) مذ) رشوت جو کسی کو دے کر کام نکالا جائے۔
 زردا کا زہ - (ف۔ مٹ) جس پر طبع یا سہری کام ہوا ہو (۲) سار۔
 زردا کارگندمر دلاف زندان (ایشل) کام تو روپیہ کرتا ہے مگر آدمی اپنی لیاقت کی ڈینگ مارتا ہے۔
 زردا کا زائل کرنا - جیتے جی ہے مرنا - (ایشل) روپیہ ضائع کرنا بہت بُری بات ہے - روپیہ برباد کر کے انسان کو بڑی تلکھینٹیں اٹھانا پڑتی ہیں۔
 زردا کا زور پورا ہے اور سب ادھورا ہے - (ایشل) روپے میں بہت طاقت ہے۔
 زردا کامل عیار - (ف۔ مٹ) خالص سونا۔
 زردا گشتا - (۱) محاورہ) زرد برستا۔
 زردا گش - (ف۔ مٹ) کلابتوں بنانے والا - چاندی کے تاروں سے زردا بنانا۔
 زردا گل - (ف۔ ا۔ مذ) اصل رقم مع سود - بیاج سمیت ٹول۔

زرکوب - (ف - ا - مذ) (۱) سونے چاندی کے ورق بنانے والا - وہ چیز جس پر سونے کے پتے لگائے گئے ہوں۔
زرکوبی - (ف - ا - مٹ) چاندی سونے کے ورق بنانا۔
زر کے آگے زور نہیں چلتا۔ [دیش] روپے والے کے سامنے طاقتور آدمی بھی کچھ نہیں کر سکتا۔
زرگر - (ف - ا - مذ) سار۔

زرگری - (ف - ا - مٹ) (۱) سار کا پیشہ (۲) مصنوعی زبان جس میں ایک حرف یا دو حرفوں کے بعد بیچ میں زسے لاکر بولتے ہیں (۳) فائنٹ اور ٹھوٹ موٹ کی لڑائی - زبانی ٹوڑ میں (جنگ کے ساتھ)۔

زرگرن - (ف - ا - مذ) چھول کے اندر کا زیرہ۔
زرگول - (ف - مٹ) سونے کے رنگ کا سنہرا۔
زرگیا زردی چھانی - زرد یا سُرخ آبی [دیش] نقصان ہونے سے چہرہ زرد پڑ جاتا ہے۔ روپیہ آنے تو مُنہ پر سُرخ بھلکنے لگتی ہے۔
زر لنگان - زرد مال گزاری - (ف - ا - مذ) سرکاری لنگان کا روپیہ۔
زر مبادلہ - (ف - م - مذ) وہ سکہ جس کے ذریعے بین الاقوامی تجارت ہوتی ہے [زر پوزٹ] (رنگ [Foreign Exchange])
زر مسکوک - (ف - ا - مذ) طلائی سکہ - اشرفی۔
زر مطالبہ - (ف - ا - مذ) سرکاری مدعیہ - واجب الادا۔
زر معاوضہ - (ف - ا - مذ) ہرجانہ - وہ روپیہ جو کسی نقصان کے عوض دیا جائے۔

زر پٹو - (ف - ا - مذ) (۱) نفع کا روپیہ - فائدہ کا روپیہ (۲) سود - بیاج
زر ناپ - (ف - ا - مذ) (۱) خالص سونا (۲) دیکھتے آفتاب۔
زر نشان - (ف - ا - مذ) سونے کے چھول یا تصویریں جو لوہے پر بنائی جاتی ہیں۔
زر نقد - (ف - ا - مذ) نقد روپیہ۔ روکڑ - وہ روپیہ جو کھوٹی کاٹ کر لیا جائے۔
زر ننگار - (ف - مٹ) (۱) سنہری کام کا - طلائی (۲) وہ چیز جس پر سنہرا کام کیا ہو۔

زر عیبت عشق میں طین - (دش) مٹسی میں کچھ نہیں ہو سکتا۔
زر نیلامی - (ف - ا - مذ) وہ روپیہ جو کسی چیز کے نیلام کرنے سے حاصل ہو
زر واصلات - (ف - ا - مذ) وہ نفع جو زمین رکھی ہوئی چیز سے حاصل ہو۔
زر ہزار زیب لگاتا ہے - بے زر بگڑا نظر آتا ہے۔ [دیش] مٹسی کام کی نہیں۔ روپے سے انسان کی شہرت، عزت اور دل کشی بڑھتی ہے۔

زر دی - (زر - ذک) (ف - ا - مذ) گاجر۔
زر دہ - (زر - ذہ) (ف - ا - مذ) (۱) زرد رنگ کا گھوٹا (۲) پت - صفرا۔
(۳) میٹھے زرد رنگ کے چاول - مُزعفر (۴) پان کے ساتھ کھانے کا تباکو (۵) زرد گڑی (۶) کبوتر جس کی آنکھیں زرد ہوتی ہیں۔
زر دہ بھسکنا - (ا - محاورہ) دم بدم خشک تباکو کھانا۔
زر دی - (زر - دی) (ف - ا - مٹ) (۱) پیلا پن - پیلا ہٹ (۲) انڈے کی زردی (۳) یرقان (۴) اشرفی (۵) چھول کے اندر کا زیرہ۔

زر شیک - (زر - شیک) (ف - ا - مذ) ایک دوا کا نام۔
زر غل - (زر - غل) (ا - مٹ) لاغر - حیرت - ناکارہ چیز۔
زرق برق - (زر - ق - برق) (ف - مٹ) (۱) شان و شوکت والا - ٹیپ ٹاپ والا - گدو ذرا والا - آراستہ - پیراستہ۔
زر قہ - (ف - ا - مٹ) وہ عورت جس کی آنکھیں نیلی اور سنہری ہوں۔
زر زہ - (زر - زہ) (ف - ا - مٹ) فولاد کا جالی دار گرتا جو لڑائی میں پہنتے ہیں۔
زر زہ پوش - (ف - ا - مذ) وہ شخص جو زہ بستر پہنتے ہو۔
زر زئی - (ف - ا - مٹ) سُہری تار - سونے کا تار - کلا جوں کا بنا ہوا کپڑا - بادلو - گونا گاری وغیرہ۔

زر زئی باف - (ف - ا - مذ) سونے کے تار بنانے والا شخص - گونا گاری بنانے والا۔
زر زئی گولے والا - وہ صراف جو پُرانا گونا گاری خرید کر لے جاتا ہے۔

زر زئی - (ف - ا - مذ) (۱) سونے چاندی کے ورق بنانے والا - وہ چیز جس پر سونے کے پتے لگائے گئے ہوں۔
زر کوبی - (ف - ا - مٹ) چاندی سونے کے ورق بنانا۔
زر کے آگے زور نہیں چلتا۔ [دیش] روپے والے کے سامنے طاقتور آدمی بھی کچھ نہیں کر سکتا۔
زرگر - (ف - ا - مذ) سار۔
زرگری - (ف - ا - مٹ) (۱) سار کا پیشہ (۲) مصنوعی زبان جس میں ایک حرف یا دو حرفوں کے بعد بیچ میں زسے لاکر بولتے ہیں (۳) فائنٹ اور ٹھوٹ موٹ کی لڑائی - زبانی ٹوڑ میں (جنگ کے ساتھ)۔

زر گول - (ف - مٹ) سونے کے رنگ کا سنہرا۔
زر گیا زردی چھانی - زرد یا سُرخ آبی [دیش] نقصان ہونے سے چہرہ زرد پڑ جاتا ہے۔ روپیہ آنے تو مُنہ پر سُرخ بھلکنے لگتی ہے۔
زر لنگان - زرد مال گزاری - (ف - ا - مذ) سرکاری لنگان کا روپیہ۔
زر مبادلہ - (ف - م - مذ) وہ سکہ جس کے ذریعے بین الاقوامی تجارت ہوتی ہے [زر پوزٹ] (رنگ [Foreign Exchange])
زر مسکوک - (ف - ا - مذ) طلائی سکہ - اشرفی۔
زر مطالبہ - (ف - ا - مذ) سرکاری مدعیہ - واجب الادا۔
زر معاوضہ - (ف - ا - مذ) ہرجانہ - وہ روپیہ جو کسی نقصان کے عوض دیا جائے۔

زر مٹا ف - (ف - ا - مذ) (۱) نفع کا روپیہ - فائدہ کا روپیہ (۲) سود - بیاج
زر ناپ - (ف - ا - مذ) (۱) خالص سونا (۲) دیکھتے آفتاب۔
زر نشان - (ف - ا - مذ) سونے کے چھول یا تصویریں جو لوہے پر بنائی جاتی ہیں۔
زر نقد - (ف - ا - مذ) نقد روپیہ۔ روکڑ - وہ روپیہ جو کھوٹی کاٹ کر لیا جائے۔
زر ننگار - (ف - مٹ) (۱) سنہری کام کا - طلائی (۲) وہ چیز جس پر سنہرا کام کیا ہو۔

زر عیبت عشق میں طین - (دش) مٹسی میں کچھ نہیں ہو سکتا۔
زر نیلامی - (ف - ا - مذ) وہ روپیہ جو کسی چیز کے نیلام کرنے سے حاصل ہو
زر واصلات - (ف - ا - مذ) وہ نفع جو زمین رکھی ہوئی چیز سے حاصل ہو۔
زر ہزار زیب لگاتا ہے - بے زر بگڑا نظر آتا ہے۔ [دیش] مٹسی کام کی نہیں۔ روپے سے انسان کی شہرت، عزت اور دل کشی بڑھتی ہے۔

زر ہے تو کھر ہے نہیں تو کھنڈر ہے - [دیش] روپیہ ہو تو گھر بھی حالت میں ہوتا ہے نہیں تو کھنڈر بن جاتا ہے۔
زر ہے تو زسے نہیں تو پراوے (کھسار کا تر ہے) - [دیش] مٹسی آدمی کسی کام کا نہیں۔
زر یا فلسفی - (ف - ا - مذ) روپیہ جو لینا ہو رہا یا جو وصول کرنا ہو۔ تر مند۔
زر عیبت - (زر - ع - مٹ) (۱) مٹسی ہاڑی - کاشکار۔

زریں۔ (زر۔ زریں) ات صفت (سونے کا بنا ہوا) ۲۱۔ سہرا جس پر زری کا کام کیا ہوا ۲۲۔ بیش قیمت۔
 زریں کلاہ۔ (ات۔ ۱۰) مذ (جس کے سر پر سہری ٹوپی ہو۔) بادشاہوں کی تعریف میں کہتے ہیں۔

زغال۔ (زغ۔ ذغال) ات ۱۔ مذ (کوئلہ جو جلا کر اترتا ہو۔)
 زغین۔ (زغ۔ زغین) ات ۱۔ مذ (پھل)۔
 زغند۔ (زر۔ زغند) ف ۱۰۔ مذ (تند۔ جست۔ چھلانگ۔ چوکڑائی۔ کدچاند۔

زف

ز۔ ژ

زڑ۔ (۱۔ ۱۰) مذ (دراڑوں کی کھاتیں۔ طابھی جابھی باتیں ۲۲) ژ۔
 زڑ (مارنا) ۱۱۔ محاورہ (کوس کرنا۔ بڑا کھن۔ یادہ گوئی کرنا) پورہ
 اور بے نامہ بے پیکے چلے جانا۔
 زڑی۔ (زڑ۔ ژ) (۱۔ ۵) صفت (کوسا۔ یادہ گری۔ بہودہ گو۔

زرفان۔ (زر۔ زرفان) (ع۔ ۱۰) مذ (دہن کی لپٹے دولہا کے گھر داگی ۲۲) ہم بہتری
 سہاگ رات دلیے موقع پر عموماً شب زرفان کہتے ہیں
 زرفت۔ (اق۔ ۱۰) مذ (سیاہ گوند جو صنوبر کے درخت سے حاصل کی جاتی ہے۔)
 زرقیل۔ (زر۔ زرقیل) (ا۔ ۱۰) مذ (عربی زعفران) سیٹی بھلنا۔ سیٹی دینا۔ وہ آواز
 جو کبوتر باز کبوتروں کے اڑانے کے واسطے دوائگیاں سننے میں رکھ کر
 دور سے نکالتے ہیں۔
 زرقینا۔ (۱۰) صفت (سیٹی بجا کر بھلانا۔ سیٹی دینا۔

ز۔ ش

زشت۔ (ات۔ صفت) برا۔ بد شکل۔ بد نما۔ مجھڑا۔
 زشت خو۔ (ات۔ صفت) نرمی عادت والا۔ بد نصلت۔ بد خو۔
 زشت خوئی۔ (ات۔ ۱۰) صفت (بد مزاجی۔ بد خلقی۔
 زشت رو۔ (ات۔ صفت) بد شکل۔ بد صورت۔

زرق۔ (زق۔ زرق) (۱۰) صفت (بھلائی۔ چھلانگ۔
 زرقند۔ (زر۔ زرقند) (ات۔ ۱۰) مذ (جست۔ زغند۔ چھلانگ۔
 زرقوم۔ (زر۔ زرقوم) (ع۔ ۱۰) مذ (تھوہر۔ بلا تھوہر تان بھی مستعمل ہے۔

زق

ز۔ ع

زخان۔ (ع۔ ۱۰) مذ (ناگانی موت۔
 زعفران۔ (زر۔ ع۔ ف۔ مان) (ع۔ ۱۰) مذ (ایک قسم کا نہایت خوشبودار
 زرد رنگ کا پھول) کیسٹر۔
 زعفران زلہ۔ (ف۔ ۱۰) مذ (وہ مقام جہاں زعفران کثرت سے ہونے لگتا ہے۔
 زعفران کا کھیت۔ وہ تھا جہاں زعفران لگا ہوا۔ پورہ جگہ جہاں بہت سی نکلتے
 زعفران کا کھیت (دیکھو آنا) دیکھنا۔ (۱۰) محاورہ (بہت ہنسنا۔
 بہت خوش ہونا۔
 زعفرانی۔ (زر۔ ع۔ ف۔ مانی) (ع۔ صفت) زعفران کے رنگ کا زرد
 کیسٹر کا ۲۲۔ زعفران کا زعفران سے منسوب۔
 زعفران زعفران۔ (ع۔ ۱۰) مذ (گن۔ ظن ۲۲) ضرور۔
 زعفران زعفران۔ (ع۔ ۱۰) مذ (زعمیم کی جمع)۔ امرا۔ لیڈر۔ سردار۔
 زعمیم۔ (زر۔ عیم) (ع۔ ۱۰) مذ (لیڈر۔ سردار۔

زک۔ (ا۔ ۱۰) مذ (مشکی۔ جھفت۔ ذلت۔ شرمندگی ۲۲) ہار۔ شکست (۳۱)
 نقصان۔ ٹوٹا۔ خسارہ (۴) ذلت۔ ہجک۔
 زک اٹھانا۔ (ا۔ پانا) (کھانا) (۱۰) محاورہ (شرمندگی اٹھانا) ہار جانا۔
 ذلیل ہونا ۳۲، نقصان یا خسارہ برداشت کرنا۔
 زک دینا۔ (۱۰) محاورہ (ہارنا۔ شکست دینا) شرمندہ کرنا (۳) ذلیل کرنا۔
 زکا۔ (ع۔ ۱۰) مذ (بڑھنا۔ زیادہ ہونا) ۲۲، (صفت) امیر۔ دولت مند (۳)
 ذرا ادا کرنے والا۔
 زکام۔ (زکام) (ع۔ ۱۰) مذ (ایک بیماری جو ناک اور گلے کی اندرونی سطح پر
 خراش پیدا کرتی ہے اور ناک سے رطوبت بہنے لگتی ہے۔
 زکام بگڑنا۔ (۱۰) محاورہ (انہ کے پانی کا سڑ جانا یا دماغ وغیرہ میں جم جانا۔
 نزلہ بند ہو کر دوسرا مرض کھڑا ہونا۔
 زکام کھانا۔ (۱۰) محاورہ (زکام کے پانی کا غلیظ ہو جانا۔
 زکام ہونا۔ (۱۰) محاورہ (نزلہ ہونا۔
 زکام ہونا۔ (ع۔ ۱۰) مذ (ایک ہومیو پیٹھک آرٹھی سے چرے گئے تھے۔
 زکوٰۃ۔ (زر۔ کات) (ع۔ ۱۰) مذ (خیرات۔ صدقہ) ۲۲، اسلام کا چوتھا فرض
 مال کا چالیسواں حصہ جو سال بھر کے بعد راہِ خدا میں دیا جائے (۲)

ز۔ ع

اُر۔ عالموں کی اصطلاح کسی اسم یا دمکا کا معینہ تعداد میں ان قیود کے ساتھ پڑھنا جو عالموں نے مقرر کیے ہیں۔ نقش کی بھی زکوٰۃ دیتے ہیں۔
 زکوٰۃ حسن۔ (رع۔ ۱۔ مٹ) خوبصورتی کا صدقہ و کنایہ [بوس۔
 زکوٰۃ میں لینا۔ (۱۔ محاورہ) زکوٰۃ کی رقم میں سے حاصل کرنا۔
 زک۔ (زک۔ ۱) رع۔ صنف [۱) پاک۔ نیک۔ (۲) زکوٰۃ دینے والا۔ جمع : اذکیاء۔

فیض اٹھانے والا۔

زکبجہ۔ (زک۔ بی۔ چہ) (ق۔ ۱۔ مذ) غایب۔
 زکینجا۔ (زک۔ نے۔ خا) رع۔ ۱۔ مٹ [۱) حسین و جمیل عورت (۲) عزیز صحری بیوی جو حضرت یوسفؑ پر عاشق ہو گئی تھی۔
 زکینجا پڑھی پر یہ نہ جانا عورت سے یا مرد۔ لایش [ان لوگوں کے مستحق کہتے ہیں جو بے بچے بوجھے بڑھتے ہیں یا بات کی نہ کو نہیں پہنچتے۔

زل

زلال۔ (زل۔ لال) رع۔ ۱۔ مذ [۱) حاصل پانی (۲) خمر اور پانی (۳) سرد اور شیریں پانی۔

زلال خضر۔ (رع۔ ۱۔ مذ) آب حیات۔

زلزلہ۔ (زل۔ زل) رع۔ ۱۔ مذ [۱) جھونچال۔ لالا ڈولا۔ زمین کا کانپنا۔

جمع : ذلّازل۔

زلزلہ آنا۔ (۱۔ محاورہ) جھونچال آنا۔

زلزلہ برپا ہونا جانا (پڑ جانا)۔ پھل پڑ جانا۔ کھلبلی مچنا۔ تینکے بچ جانا۔
 زلف۔ (ف۔ ۱۔ مٹ) [۱) بالوں کا پچھا جو کان کے پاس کینٹی پر لٹکتا ہے۔ (۲) کاکل۔ گیسو۔ مینڈھی۔ گندھے ہوئے بال۔

زلف پریشاں۔ (ف۔ ۱۔ مٹ) بھرے ہوئے بال۔

زلف تاب دار۔ (ف۔ ۱۔ مٹ) گھونگر یا بے بال۔

زلف چلیپیا۔ (ف۔ ۱۔ مٹ) صلیب کی شکل کی زلف۔ بعض عورتیں اپنی زلف اس طرح گوندھتی ہیں کہ سر سے پر کر صلیب کی کسی شکل بن جاتی ہے۔
 زلف رسا۔ (ف۔ صنف) لمبی زلف۔

زلف سنبیل۔ (ف۔ ۱۔ مٹ) سنبیل کے بال یا گھاس ناپتیاں۔ بالچھڑ کی لٹ سنبیل کے بالوں کے ساتھ استعارہ کرتے ہیں۔

زلف شب۔ (ف۔ ۱۔ مٹ) رات کی تازیکی۔

زلف خنبریں۔ (ف۔ ۱۔ مٹ) خوشبودار بال۔

زلف کا سودا ہونا۔ (۱۔ محاورہ) عاشق ہونا۔

زلف گرہ گیر۔ (ف۔ ۱۔ مٹ) اُلچھنے والی زلف۔

زلف لہرانا۔ (۱۔ محاورہ) بالوں کا ہوا میں اُڑانا۔

زلفیں چھوڑنا۔ (۱۔ محاورہ) زلفیں اس طرح بڑھانا کہ شکنی رہیں۔

زلفیں رکھنا۔ (ف۔ ۱۔ مٹ) زلفیں لمبی کرنا۔

زلفیں سنوارنا۔ (۱۔ محاورہ) بالوں کو بنانا۔ زلفوں کو خوبصورت بنانا۔

زلفی۔ (زل۔ فی) (ف۔ ۱۔ مٹ) [۱) دروازے کی زنجیر (۲) پٹی۔ دروازے کا کھٹکا (۳) عوار کی موٹہ۔

زلزل۔ (زل۔ ل) رع۔ ۱۔ مذ [۱) پھسلنا۔ گرنا۔ ٹھوکر کھانا (۲) غلطی کرنا۔ ہمو کرنا۔ (۳) کھانا۔ نقصان (۴) لغزش۔ پھسلنا۔

زلزلہ۔ (زل۔ ل) رع۔ ۱۔ مذ [۱) ٹھوکر۔ ٹھوک۔ (۲) مٹ) جو تک۔

زلزلہ۔ (زل۔ ل) رع۔ ۱۔ مذ [۱) آگے کا بچا ہوا کھانا۔ پس خورد۔ جمع : زللات۔
 زلزلہ زباں پر قرار۔ (۱) کسی کا بچا ہوا کھانے والا (۲) خوش چین۔ کسی سے

زم

زمام۔ (زم۔ مام) رع۔ ۱۔ مٹ [باگ۔ نکیل۔ جمع : ازمائم۔

زمام حکومت ہاتھ میں لینا۔ (۱۔ محاورہ) حکومت کی باگ دُور اپنے ہاتھ میں لینا۔ خود حکومت کرنا۔

زمان۔ (زم۔ مان) رع۔ ۱۔ مذ) وقت۔ زمانہ۔ ساعت۔

زمانہ۔ (زم۔ مانہ) (ف۔ ۱۔ مذ) حرکت فکری کی مقدار۔ وقت۔ سماں۔ ہنگام۔

(۲) عرصہ۔ مدت۔ وقفہ۔ میعاد (۳) موسم۔ وقت۔ فصل (۴) عہد۔ راج۔ حکومت (۵) جنگ۔ قرن (۶) دور۔ گردش (۷) دنیا۔ عالم۔ دہر (۸)

دنیا کے لوگ۔ جنگ۔ مخلوق (۹) گردش۔ دور (۱۰) قسمت۔ نصیب (۱۱) (صرف) ماضی۔ حال مستقبل میں سے ایک۔ جمع : ازمائم۔

زمانہ آنا۔ (۱۔ محاورہ) وقت آنا۔

زمانہ آنکھوں سے (دیکھا ہے) گزر چکا ہے۔ (۱۔ مثل) بہت تجربہ ہو چکا ہے۔

زمانہ اٹٹ پٹٹ ہونا۔ زمانہ اُلٹ جانا۔ (۱۔ محاورہ) انقلابِ عظیم ہو جانا۔

زمانہ اُٹٹنا۔ (۱۔ محاورہ) خلقت کا بڑی تعداد میں کسی جگہ سپینا۔

زمانہ ایک رنگ پر نہیں رہتا۔ (۱۔ مقولہ) کسی کی حالت یکساں نہیں رہتی۔

زمانہ باقونہ ساز و تو با زمانہ ساز۔ (مثل) اگر زمانہ تیرا ساتھ نہیں دیتا تو تجھے زمانے کا ساتھ دینا چاہیے۔ اکثریت اگر کسی رائے کے خلاف ہو تو بجائے سب کا مخالف بننے کے اکثریت کی رائے مان لینا چاہیے۔

زمانہ باقونہ ساز و تو با زمانہ ستیز۔ (ف۔ مثل) اگر زمانہ تیرا ساتھ نہیں دیتا تو تو زمانے کے ساتھ جنگ کر۔ زمانے کی ہوا کے ساتھ بہ جانا کوئی خوبی نہیں۔ زمانے کے ساتھ چلنا کمزوری کی نشانی ہے۔

زمانہ بدلنا۔ (۱۔ محاورہ) قسمت پھرنا۔ انقلاب ہونا۔

زمانہ بگرتنا۔ (۱۔ محاورہ) تجربہ ہونا۔

زمانہ برسرِ جنگ ہونا۔ (۱۔ محاورہ) ہر بات مخالف پڑنا۔ نصیباً خراب ہونا۔

زمانہ بسر کرنا۔ (۱۔ محاورہ) وقت گزارنا۔ گزارہ ہونا۔

زمانہ بھرنے (۱) تمام دُنیا۔

زمانہ بھر کا پھٹا ہوا۔ (۱۔ صنف) بہت بد معاش۔ اول درجے کا لاپتہ۔

زمانہ پر روشن ہونا۔ (۱۔ محاورہ) سب کو معلوم ہونا۔ سب پر ظاہر ہونا۔

زمانہ پھلنا۔ (۱۔ محاورہ) انقلاب ہونا۔

زمانہ پھر جانا۔ (۱- محاورہ) (۱) لوگوں کا کسی کے خلاف اور دشمن ہو جانا (۲)
 زمانے کا لٹ جانا۔ زمانہ بدل جانا۔
 زمانہ تہ و بالا ہونا۔ (۱- محاورہ) انقلاب عظیم ہونا۔
 زمانہ جاہلیت۔ (ع- ف- ۱- مذ) عرب میں اسلام سے پہلے کا زمانہ۔
 زمانہ پیر سے ہونا۔ (۱- محاورہ) تجربہ کار ہونا۔
 زمانہ چھٹنا۔ (۱- محاورہ) بہت تلاش کرنا۔
 زمانہ حال۔ (ع- ف- ۱- مذ) وہ زمانہ جو گزر رہا ہے۔ موجودہ زمانہ۔
 زمانہ دیکھ ڈالا ہے۔ (۱- محاورہ) بڑا تجربہ کار ہے۔
 زمانہ دیکھنا۔ (۱- محاورہ) تجربہ کار ہونا۔
 زمانہ دیکھے بیٹھے ہیں۔ ان آنکھوں سے نہ معلوم کیا کیا دیکھ ڈالا ہے۔
 بہت تجربہ کاریں۔
 زمانہ زیر و زبر ہونا۔ (۱- محاورہ) انقلاب عظیم ہونا۔ ہل چل پینا۔
 زمانہ ساز۔ (ن- صفت) ظاہر دار۔ خود غرض۔ سوچ پرست۔
 زمانہ سازمی۔ (ن- ۱- صفت) خوش خدمت ظاہر داری۔ بناوٹ۔ مکاری۔
 زمانہ سے اٹھنا (اڑ جانا)۔ (۱- محاورہ) ناپید ہو جانا۔ نیست و نابود ہو جانا۔
 زمانہ سے برکت اٹھ جانا۔ (۱- محاورہ) دنیا میں فلاح و بہبود کا نہ رہنا۔
 نکبت آنا۔
 زمانہ سے نرالا۔ (۱- صفت) سب سے الگ۔ عجیب۔
 زمانہ عدت۔ (ن- ع- ۱- مذ) وہ عیسا جس میں عورت طلاق ملنے یا
 رائی ہونے کے بعد دوسرا خاوند نہ کر سکے۔
 زمانہ کا گرا پڑنا۔ (۱- محاورہ) کسی بات کی طرف خلقت کا بے طرح متوجہ ہونا۔
 زمانہ کی گردش۔ (۱- مشی) انقلاب۔
 زمانہ گرگٹ کی طرح رنگ بدلتا ہے۔ (۱- مثل) دقت کبھی کبھی
 ہوتا ہے کبھی کبھی۔
 زمانہ گزرنا۔ (۱- محاورہ) عرصہ ہونا۔ مدت گزرنا۔
 زمانہ ماضی۔ (ن- ع- ۱- مذ) گزرا ہوا زمانہ۔
 زمانہ مبتلا ہونا۔ (۱- محاورہ) بہت لوگوں کا ایک شخص پر عاشق ہونا یا
 کسی بات میں پینا۔
 زمانہ مستقبل۔ (ن- ع- ۱- مذ) وہ زمانہ جو آئے گا۔ آنے والا زمانہ۔
 زمانہ موافق ہونا۔ (۱- محاورہ) نصیباً ایجا ہونا۔ طالع یا در ہونا۔
 زمانہ نازک ہونا۔ (۱- محاورہ) ایسا وقت جس میں عورت سنبھالنا دشوار ہو۔
 زمانہ نظر میں اندھیر ہونا۔ (۱- محاورہ) سخت گھبراہٹ ہونا۔ پریشانی
 میں کچھ نہ سوجھنا۔ سخت تم داؤدہ ہونا۔
 زمانہ ہوا۔ (۱- محاورہ) عرصہ ہوا۔ مدت ہوئی۔
 زمانہ سے کھونا۔ (۱- محاورہ) کہیں کا نہ رکھنا۔
 زمانے کا انقلاب ہونا۔ (۱- محاورہ) زمانہ بدلنا۔ سخت ہل چل پینا۔
 زمانے کا پلٹا کھانا۔ (۱- محاورہ) زمانے کا رنگ بدلنا۔ زمانے کا کروٹ
 لینا۔ حالت بدلنا۔
 زمانے کا چیلن۔ (۱- مذ) وقت کا رسم و رواج۔ دنیا کا طریقہ۔
 زمانے کا رخ دیکھنا۔ (۱- محاورہ) لوگوں کے خیالات اور طریقے کا خیال کھنا

زمانے کا دستور۔ (۱- مقولہ) رسم و رواج۔
 زمانے کا رونا۔ لوگوں کا ماتم یا غم کرنا۔
 زمانے کا زمانہ۔ (۱- محاورہ) تمام لوگ۔ ساری خلقت۔ پوری دنیا۔
 زمانے کا فرصت دینا۔ (۱- محاورہ) دنیا داری کے کاموں سے فراغت پانا
 زمانے کا کروٹ لینا۔ (۱- محاورہ) زمانہ بدلنا۔
 زمانے کا ہوسیند ہونا۔ آپس میں محبت نہ رہنا۔ بے مروتی کا عام ہونا۔
 زمانے کا ناموافق ہونا۔ (۱- محاورہ) قسمت خراب ہونا۔
 زمانے کا ورق اُلٹ جانا۔ (۱- محاورہ) زمانہ بدل جانا۔
 زمانے کی آب و ہوا بدل جانا۔ (۱- محاورہ) لوگوں کے خیالات اور
 ہوجانا۔ انقلاب ہوجانا۔
 زمانے کی راہ۔ (۱- صفت) لوگوں کا دستور یا چلن۔ رسم و رواج۔
 زمانے کی ہوا بگڑنا۔ (۱- محاورہ) لوگوں کی حالت بدلنا۔ دوستوں کا دشمن
 ہوجانا۔ لوگوں کے خیالات خراب ہوجانا۔
 زمانے کی ہوا پھر جانا۔ (۱- محاورہ) ہر بات کا برخلاف ہونا۔ قسمت
 خراب ہونا۔
 زمانے کی ہوا دیکھنا۔ (۱- محاورہ) لوگوں کا رجحان دیکھنا۔ دقت کے
 تقاضوں کا اندازہ کرنا۔
 زمانے کی ہوا کھانا۔ (۱- محاورہ) زندہ رہنا۔
 زمانے کے۔ (۱- صفت) اپنے وقت کے۔ دنیا بھر کے۔
 زمانیاں۔ (ن- زمان۔ یال) دن۔ (۱- صفت) زمانے کے لوگ۔
 زمرہ۔ (ن- زمر۔ زمر) دن۔ (۱- مذ) سبز رنگ کا قیمتی پتھر۔
 زمرہ رنگار۔ (ن- صفت) زمرہوں سے بڑا ہوا۔
 زمرہ دیں۔ (ن- زمر۔ زمر) دن۔ (۱- صفت) سبز رنگ کا۔
 زمرہ۔ (ن- زمر۔ زمر) دن۔ (۱- مذ) گروہ۔ جتھا۔ جماعت (۲) ساقی۔ ہرابی۔
 (۳) بیڑ۔ فرج۔
 زمرم۔ (ن- زمر۔ زمر) دن۔ (۱- مذ) بیت اللہ کے کنوئیں کا نام نیز دیکھے آب زمرم۔
 زمرمہ۔ (ن- زمر۔ زمر) دن۔ (۱- مذ) (۱) قرم۔ نغمہ۔ ترانہ۔ گیت (۲) دھیمی آواز
 میں عبادت کے کلمات پڑھنا۔ لاہور میں ایک توبہ کا نام۔
 زمرمہ پر داڑ۔ زمرمہ پیرا۔ زمرمہ حوال۔ زمرمہ سنج۔ (ن- صفت)
 داگ گانے والا۔
 زمرمہ کا پلٹا۔ پچھدار آواز بول گئے گانے میں نکالتے ہیں۔
 زمرمی۔ (ن- زمر۔ زمر) دن۔ (۱- صفت) (۱) حاجیوں کو آب زمرم دینے والا
 شخص (۲) آب زمرم رکھنے کا برتن۔
 زمستان۔ (ن- زم۔ زم) تان۔ (ن- ۱- مذ) موسم سرما۔ جاڑا۔ سردی۔
 زمیں۔ (ن- زمین) (ع- ۱- مذ) وقت۔ زمانہ۔ جمع، ازمان۔ آزمینہ۔
 زہریر۔ (ن- زم۔ زم۔ زم) دن۔ (۱- مذ) (۱) سخت جاڑا۔ نہایت سردی (۲)
 کرتے ہوا کا وہ طبقہ جو نہایت سرد ہے۔ (۳) دوزخ کا طبقہ جس میں
 سردی کا عذاب دیا جائے گا۔
 زمینی۔ (ن- زم۔ زم) دن۔ (۱- صفت) زمین کا تخت۔ دھرتی۔
 زمین۔ (ن- زمین) دن۔ (۱- صفت) (۱) دھرتی۔ بھوم۔ ارض۔ (۲) وہ جگہ جس

پر ہم رہتے ہیں (۲) غزل کی ردیف۔ قافیہ اور وزن یا بحر (۳) اُردو گزنیہ۔
 جہان۔ عالم۔ مسنار۔ تختہ۔ خطہ۔ ولایت۔ ملک۔ دیس (۴) خاک۔ مٹی۔
 دھول۔ گرد (۵) بنیاد۔ جڑ۔ نیو (۶) تہ۔ طبقہ۔ تلاء۔ نیچے کا حصہ (۷) کاغذ
 یا کپڑے کی اصل۔ سطح یا رنگ (۸) عورت۔ اولاد کی والدہ۔
 زمین آسمان ایک کر دینا۔ (۱) محاورہ کسی چیز یا کسی شخص کی تلاش میں
 کوئی جگہ باقی نہ چھوڑنا۔ کرنا کرنا جہاں مارنا۔ کُل کر کشش کرنا۔
 زمین آسمان پر ٹھکانا نہ ہونا (لگنا)۔ بے ٹکی بات کہنا۔
 زمین آسمان جھکنا۔ (۱) محاورہ (۲) در بدر پھرنا (۳) دیوانہ بنانا۔
 زمین آسمان جھاننا۔ (۱) محاورہ بہت تلاش کرنا۔
 زمین آسمان کا فرق۔ (۱) مذ۔ بہت بڑا فرق۔
 زمین آسمان کے تالے ملانا۔ (۱) محاورہ (۲) بہت مبالع کرنا۔ جھوٹی
 سچی باتیں بنانا (۳) سچی مارنا۔ لاف زنی کرنا۔
 زمین آسمان میں پتہ نہ ملنا۔ (۱) محاورہ کہیں نہ ہونا۔
 زمین اٹھنا۔ (۱) محاورہ (۲) زمین کا ٹھیکے پر جانا (۳) زمین کا جوتا بویا جانا
 (۴) زمین کا سرسبز ہونا۔
 زمین اُڑا دینا۔ (۱) محاورہ اہل چل بجا دینا۔
 زمین اُفتادہ۔ (ف۔ صفت) زمین جو کاشت نہ کی گئی ہو۔
 زمین اُلٹنا۔ (۱) محاورہ (۲) غضب کرنا (۳) ٹمک فوج کرنا۔
 زمین بلند ہونا۔ (۱) محاورہ (۲) غزل کی بحر کا دشوار ہونا۔
 زمین بوس۔ (ف۔ صفت) (۱) وہ جو حاضر ہو کر اظہارِ ادب کے لیے
 زمین بوسی۔ (ف۔ اسم) زمین چومنا۔ سامنے حاضر ہو کر ادب سے
 زمین کو بوسہ دینا۔
 زمین بٹھینا۔ (۱) محاورہ (۲) زمین کا دھس جانا۔
 زمین پامال ہونا۔ (۱) محاورہ (۲) ایک بچہ اور ردیف و قافیے میں پہلے
 سے بہت سی غزلیں ہونا۔
 زمین پاؤں تلے سے نکل جانا۔ (۱) محاورہ (خوف اور دہشت سے
 کھڑا رہنا مشکل ہونا۔ نہایت بیقرار ہونا۔
 زمین پاؤں سے لگ رہی ہے۔ (۱) محاورہ بہت آمدورفت کی
 وجہ سے رستہ قریب معلوم ہوتا ہے۔
 زمین پاؤں سے نکلی جاتی ہے۔ نہیں ہمتی۔ نہیں بھرتی۔ بڑا
 زمانہ ہے کوئی کسی کا نہیں۔ سخت گھبراہٹ ہے۔
 زمین پر اُڑنا۔ (۱) محاورہ رگر پڑنا۔
 زمین پر پاؤں نہ (دھرنا) رکھنا۔ (۱) محاورہ (۲) بہت اترنا۔ بہت غم کرنا
 زمین پر ٹیکنا۔ (۱) محاورہ گرانہ۔ دس مارنا۔
 زمین پر چڑھنا۔ (۱) محاورہ گھوڑے کا مسافت طے کرنے میں شائق ہونا
 ہر روز تھوڑا تھوڑا سفر بڑھا کر گھوڑے کو بے سفر کی عادت ڈالنا۔
 زمین پر ڈھسنا۔ (۱) محاورہ گرجنا۔
 زمین پر سے کچھ بڑا مانا۔ (۱) محاورہ (۲) کوئی چیز بغیر عنت مشقت کے
 حاصل ہونا۔ کوئی چیز اٹھا قابل جانا (۳) کوئی مطلب کی چیز چاہک بل جانا۔

زمین پر قدم نہ رکھنا۔ (۱) محاورہ غمزد کرنا۔
 زمین پر کسی کے نام کی شراب چھڑکنا۔ (۱) محاورہ) سے نوشوں میں
 یہ دستور ہے کہ پینے سے پہلے کسی کا نام لے کر ایک آدھ چھینٹا شراب
 کا زمین پر گرگا دیتے ہیں۔
 زمین پر نہ ٹھنسنے دینا۔ (۱) محاورہ) اپنے علاقے یا اپنی زمین پر نہ ٹھنسنے دینا
 زمین پر ملا تھہ نہیں تھکے۔ (۱) محاورہ) عاجز نہیں ہوا۔ اہمی طاقت ہے۔
 زمین سبت ہونا۔ (۱) محاورہ) بچاؤ و دلالت و قافیہ کا اچھا نہ ہونا۔
 زمین پچھڑنا۔ (۱) محاورہ) (۲) جم کر بیٹھنا (۳) کسی جگہ مستقل سکونت اختیار کرنا۔
 زمین پھٹ جائے اور میں سما جاؤں۔ (۱) مثل) نہایت شرمندگی یا
 زندگی سے بیزار ہو جانے کے وقت بولتے ہیں۔ ناگہانی موت آجائے۔
 زمین ترقید و پیدا شدہ سمر [نیشل] (تھارتا) کوئی دفعہ آجائے تو
 مذاق کہتے ہیں۔ زمین چھٹی اور گدھے کا سر بیٹا ہو گیا۔
 زمین تلے اوپر کر دینا۔ (۱) محاورہ) انقلاب برپا کر دینا۔ اہل چل بجا دینا۔
 زمین تھرتانا۔ (۱) محاورہ) (۲) اہل چل چلنا۔ (۳) زلزلہ آنا۔
 زمین ٹل جائے اور یہ نہ ملے۔ (۱) مثل) نہ ٹکنے والی مصیبت۔ مندی
 شخص یا ضروری تعمیل ہونے والے حکم کی نسبت بولتے ہیں۔
 زمین ٹھنڈی ہونا۔ (۱) محاورہ) ردیف و قافیے کا چٹ نہ ہونا۔
 زمین ٹھکانا۔ (۱) محاورہ) آوارہ پھرنا۔
 زمین چڑھا ہوا کھوڑا۔ (۱) محاورہ) وہ گھوڑا جسے بے سفر کی عادت ڈالی
 گئی ہو۔
 زمین سمن ٹینر۔ (ف۔ صفت) وہ خطہ جہاں کے اکثر لوگ خوبصورت
 ہوتے ہوں۔
 زمین خالصہ۔ (ف۔ اسم) وہ زمین جو براہ راست بادشاہ کی ذاتی
 ملکیت ہو۔ جاگیر صرف خاص۔
 زمین تراجمی۔ (ف۔ اسم) وہ زمین جس کا معاملہ ادا ہوتا ہو۔
 زمین خون سے لال ہونا۔ (۱) محاورہ) سخت خون ریزی ہونا۔ لڑائی
 میں بہت لوگوں کا مارا جانا۔
 زمین وار۔ (ف۔ صفت) زمین کا مالک (۲) زمین کاشت کرنے والا
 شخص۔ کاشتکار۔
 زمین دار کو کسان۔ پچھے کو مسان۔ (۱) مثل) زمین دار کو اپنے کاشتکار
 اور پچھے کو مرض مسان سے سخت نقصان پہنچتا ہے۔
 زمین دار کی جڑ بھری۔ زمین دار ہمیشہ خوش حال رہتا ہے۔
 زمین داری۔ (۱) زمینداری کا پیشہ یا کام (۲) پتی داری۔ جاگیر داری۔
 (۳) راضی۔ پتی۔ ریاست (۴) زمین جو زمیندار کے قبضے میں ہو۔
 (۵) زمین دار کا عہدہ۔
 زمین داری پٹنا۔ (۱) مذ) ایک تختہ جس میں سرکار زمین داری کے
 حقوق عطا کرتی ہے۔
 زمین داری ڈوب کی جڑ ہے۔ زمین داری کھڑے کی ڈوب ہے
 (مثل) زمینداری میں ہمیشہ فائدہ ہوتا ہے۔ زمینداری یا پیداوار چیز ہے۔
 زمین دکھانا۔ (۱) محاورہ) (۲) لگا دینا۔ چلنا (۳) پچھا دکھانا (۴) پچھا ڈالنا۔

زمین دوڑیہ - (ف. صف) زیر زمین - زمین کے نیچے۔
 زمین دوڑ قلعہ - زمین کے نیچے بنا ہوا قلعہ۔ ایسا قلعہ جس کی چھت
 زمین کے برابر ہو اور باہر سے پتہ نہ چلے کہ قلعہ ہے۔
 زمین دیکھنا - (ا. محاورہ) (۱) بیجا دیکھنا۔ شرمندہ ہونا (۲) گر پڑنا۔
 پچھڑنا (۳) زمین میں دفن ہونا (۴) تے کرنا۔
 زمین سیند - (ف. ا. مٹ) وہ آفتابہ زمین جس پر مکانات نہ ہوں۔
 زمین سخت ہے آسمان وور سے - (۱) مٹل (۲) سخت مصیبت اور
 بے بسی کے موقع پر کہتے ہیں۔ سختی کے باعث زمین میں سما سکتا ہوں نہ دوزی
 کے سبب آسمان پر پہنچ سکتا ہوں۔ کچھ کرتے دھرتے نہیں بن پڑتی۔
 زمین سر پر اٹھالینا - (ا. محاورہ) بہت شور وغل کرنا۔ اُدھم مچانا۔ بڑا
 فساد برپا کرنا۔
 زمین سست ہونا - (ا. محاورہ) شعری بحر وغیرہ کا چست نہ ہونا۔
 زمین سہل ہونا - (ا. محاورہ) روایت وقایہ کا آسان ہونا۔
 زمین سے پیٹھ لگنا - (ا. محاورہ) قرار پکڑنا۔ آرام کرنا۔ بے چینی رفع کرنا۔
 زمین شعر سگڑاں ہے - (ا. محاورہ) شعری بحر اور وزن مشکل ہے۔
 زمین شقی ہونا - (ا. محاورہ) زمین چھٹ جانا۔
 زمین شکستہ ہونا - (ا. محاورہ) زمین شکر کا ایسا موزوں و مناسب ہونا
 کہ اچھے شعر موزوں ہوں۔
 زمین شور و سنبل بر نیارو - (ف. مٹل) کھار والی زمین میں سنبل نہیں
 آگت۔ بڑے آدمی سے کسی نیک کی امید نہیں ہوتی۔
 زمین طرح کرنا - (ا. محاورہ) بھرا اور قافیہ روایت کا معنی ہونا۔
 زمین غیر مزروعہ - (ف. ا. مٹ) وہ زمین جس میں کاشت نہ کی جائے
 آفتابہ زمین۔
 زمین قند - (ف. ا. مٹ) ایک قسم کی ترکاری۔ شکر قندی۔ کچاو۔
 زمین کا پاؤں پکڑنا - (ا. محاورہ) کسی مقام پر قیام جو جانا۔ کہیں سے
 جانا سکتا۔
 زمین کا پاؤں تلے سے سرک جانا (شکل جانا) - (ا. محاورہ) (۱)
 کسی حد سے کا حال میں گر گھبرا جانا (کنایت) وقت پر کسی کا ساتھ نہ دینا۔
 زمین کا پاؤں کے نیچے نہ ٹھہرنا - (ا. محاورہ) کسی کا ساتھ نہ دینا۔
 زمین کا پیوند ہونا - (ا. محاورہ) (۱) دفن ہونا۔ مر جانا (۲) فنا ہونا۔ نیست
 نابود ہونا۔
 زمین کا تختہ اٹل جانا - (ا. محاورہ) انقلاب عظیم ہونا۔
 زمین کا کھا جانا - (ا. محاورہ) (۱) نیست و نابود کر دینا (۲) زمین کا دفن
 شدہ چیز کو بوسیدہ کر دینا۔
 زمین کا لڑ - (ا. مذ) بہت سفر کرنے والا۔ آوارہ پھرنے والا۔
 زمین کا مالک - (ا. مذ) زمین دار۔
 زمین کا پینا - (ا. محاورہ) ہل چل جانا۔ زمانہ کا ترو بالا ہونا۔
 زمین کا نہ آسمان کا - (۱) مٹل (۲) کہیں کا بھی نہیں۔ نہ دین کا نہ دنیا کا۔
 نہ ادھر کا نہ اُدھر کا۔
 زمین کو آسمان کر دینا - (ا. محاورہ) پست زمین شکر کو اٹل بنا دینا۔

زمین کو بوسہ دینا - (ا. محاورہ) زمین چومنا۔ زمین بوسی کرنا۔
 زمین کو مارے زمین دار چوسنے - (۱) مٹل (۲) کسی کمزور کو مار کر زور آور
 پر دیکھ ڈالنا۔
 زمین کھا گئی کہ آسمان - (۱) مٹل (۲) اس وقت کہتے ہیں جب کھوئی
 ہوئی چیز کا پتا نہ لگے۔
 زمین کی پوچھنا آسمان کی کہنا - (۱) مٹل (۲) سوال کچھ جواب کچھ۔ بے سخی
 بات کہنا۔
 زمین کی طنا میں کھینچ دینا - (ا. محاورہ) مسافت کم کر دینا۔ ناصلا
 حقوڑا کر دینا۔
 زمین کی گردن - (۱) مٹل (۲) خاک ناٹے۔ خشکی کا وہ تنگ حصہ جو پانی
 کے دو بڑے حصوں کو جدا کرے اور خشکی کے دو حصوں کو ملائے۔
 زمین کے برابر ہو جانا - (ا. محاورہ) (۱) خاک ہو جانا (۲) خاک ری کرنا۔
 زمین کے طبقے آسمان پر اڑا دینا - (ا. محاورہ) زمین کے طبقے اٹل
 دینا۔ زمین تہ و بالا کر دینا۔ خدرا دینا۔ قیامت برپا کر دینا۔
 زمین کے نیچے اس قدر ہے جتنا زمین کے اوپر ہے۔ (۱) مٹل (۲)
 اس آدمی کی نسبت جو بہت چالاک اور حیا رکھتا ہے۔
 زمین گرم ہونا - (ا. محاورہ) زمین شکر کا پست ہونا۔
 زمین گلزار ہونا - (ا. محاورہ) (۱) سرخ پھولوں سے زمین بھری ہونا (۲)
 رخنوں سے زمین بھری ہونا۔
 زمین گھس جانا - (ا. محاورہ) زمین کو نقصان پہنچ جانا (طنز) کہتے ہیں کہ
 چیلنے یا کھڑے رہنے سے زمین گھس نہ جائے گی۔
 زمین گیر - (ف. صف) (۱) وہ جو اپنی جگہ سے جنبش نہ کر سکے (۲) زمین پر
 گرنا (۳) ہلکا ہوا۔ تینہ (۴) زیادہ عمر کی وجہ سے کمزور (۵) بہت
 بوڑھا آدمی۔
 زمین (متحرک) ہمز لزل ہونا - (ا. محاورہ) (۱) زمین کا پینا۔ زلزلہ آنا۔
 (۲) ہل چل جانا۔
 زمین مر ہونا - (ف. ا. مٹ) گرد دکھی ہوئی زمین۔
 زمین مزروعہ - (ف. ا. مٹ) کاشت کی ہوئی زمین۔
 زمین میں ٹھکانا نہ آسمان میں - (۱) مٹل (۲) بے خانہ ہے۔ کہیں
 ٹھکانا نہیں ہے۔
 زمین میں سما نا - (ا. محاورہ) (۱) سخت شرمندہ ہونا (۲) زمین میں گڑنا۔
 زمین میں جذب ہونا۔
 زمین میں گاڑوں گا - (۱) دھکی (۲) مزہ چکھاؤں گا۔
 زمین میں گاڑنا - (مض. مرکب) دفن کرنا۔
 زمین میں گڑنا - (ا. محاورہ) (۱) دفن ہونا (۲) نہایت شرمندہ ہونا۔
 زمین ناپنا - (ا. محاورہ) (۱) سفر کرنا (۲) آوارہ پھرنا۔ مارے مارے پھرنا۔
 زمین نکالنا - (ا. محاورہ) (۱) زمین شکر تلاش کرنا۔ نئے روایت و قافیہ میں
 شکر کہنا (۲) دریا کا جٹ جانا اور زمین قابل کاشت ہونا۔
 زمین و آسمان ٹھہرانا - (ا. محاورہ) سخت ہل چل جانا۔ ترو بالا ہونا۔
 زمین و آسمان کا فرق ہونا - (ا. محاورہ) بہت بڑا فرق ہونا۔

زُنارہ - (زُن - نار) - (ف - ا - مذ) - تمام زمانہ۔
 زمین بلا دینا - (ا - محاورہ) - ہل چل مچا دینا۔ قیامت برپا کر دینا۔
 زمین دارا - (ز - مین - دا - نا) - (ا - ا - مذ) - (ا) حق زمین داری (۲) دیہات۔
 زمین دارنی - (ز - مین - دار - نی) - (ا - ا - مذ) - (ا) زمین دار کی بیوی۔
 زمینی - (ز - بی - نی) - (ف - ص) - (ا) زمین کی۔ زمین کے متعلق (۲) خاک کی
 دنیادی - سبلی۔

زُنارہ - (زُن - نار) - (ف - ا - مذ) - تمام زمانہ۔
 زمین بلا دینا - (ا - محاورہ) - ہل چل مچا دینا۔ قیامت برپا کر دینا۔
 زمین دارا - (ز - مین - دا - نا) - (ا - ا - مذ) - (ا) حق زمین داری (۲) دیہات۔
 زمین دارنی - (ز - مین - دار - نی) - (ا - ا - مذ) - (ا) زمین دار کی بیوی۔
 زمینی - (ز - بی - نی) - (ف - ص) - (ا) زمین کی۔ زمین کے متعلق (۲) خاک کی
 دنیادی - سبلی۔

ز - ن

زُن - (ف - ا - م) - (ا) عورت - ناری - تریا (۲) بیوی - استری - زودجر -
 لگائی (۳) - (ص) - مارنے والا جیسے - تیغ زن - وہ چیز جس پر ضرب
 پہنچائی جائے جیسے تظن - جمع ، زنان۔
 زن باردار - (ف - ا - ص) - حامل عورت۔
 زن - زر - زمین تینوں لڑائی کے کھر - (ا) مثل عورت - رہبریہ اور
 زمین سے دنیا میں جگہ لے پیدا ہوتے ہیں۔
 زن مدخو کہ - (ف - ع - ا - م) - گھر میں ڈال ہوئی عورت - داشتہ۔
 زن مرید - (ف - ص) - بیوی کا مطیع۔
 زن منکوحہ - (ف - ا - م) - وہ عورت جس کے ساتھ نکاح ہوا ہو۔
 بیاہتا بیوی۔
 زن وشو - (ف - ا - مذ) - بیوی اور شوہر - بور و خاوند۔
 زن و فرزند - (ف - ا - مذ) - بیوی بچے - اہل و عیال۔
 زن زن - (ف - ص) - صوت - تاب (فعل) - فرخ - تیزی سے - کسی چیز کے
 تیز چلنے کی آواز۔
 زن سے - (ا) - متعلق فعل - تیزی سے۔

زنا - (ز - نا) - (ع - ا - مذ) - غیر منکوحہ یا غیر ملوکہ عورت سے جماعت - حرام کاری بگاری
 زنا بالجبر - (ع - ا - مذ) - کسی عورت سے زبردستی اور ناجائز طور پر جماعت کرنا۔
 زنا کار - (ع - ف - ص) - زنا کرنے والا - بدکار۔
 زنا کاری - (ف - ا - م) - بد کاری - حرام کاری۔
 زُنارہ - (زُن - نار) - (ا - مذ) - کسی ٹھوس چیز کے ہوا میں زور سے گزرنے کی آواز۔
 زُنار - (ز - نار) - (ع - ا - م) - مُرغ یا کبوتر وغیرہ کے سینے کی ہڈی جو
 دو شاخ ہوتی ہے۔
 زُنارخ توڑنا - (ا - محاورہ) - (ا) سینہ مرغ کی ہڈی کو دو عورتوں کا کھینچ کر توڑنا۔
 (۲) پکا یا مارنا ہونا - ہمزاج بنا نا - سبیل بنا نا۔
 زُنارخ - (ز - نار) - (ف - ا - مذ) - (ا) سانپ (۲) بند کمن۔
 زُنارخی - (ز - نار) - (ا - ا - م) - (ا) لال تلہ دہلی کی عورتوں کا یہ دستور تھا
 کہ وہ آپس میں رشتے مقرر کر کے ایک دوسرے کو خطاب کیا کرتی تھیں
 مثلاً دل جان جان من زُنارخی وغیرہ۔ زُنارخی کا رشتہ اور رشتوں سے زیادہ
 مضبوط اور قابل قدر گنا جاتا تھا سبیل گویشاں۔

زنانی سوانری - (ف - ا - م) - عورت جو سواری میں بیٹھے۔
 زنبق - (ز - م - بق) - (ع - ا - مذ) - (ا) پھول کی ایک قسم - چمپا (۲) پھول کی تیل۔
 (۳) شراب (۴) ایک قسم کا مہم۔
 زنبور - (ز - م - ب) - (ع - ا - مذ) - (ا) بگڑ - شہد کی مکھی (۲) ایک قسم کا مٹہ
 گول ہوتا ہے اس سے میوں کو نکالا جاتا ہے (۳) دانت نکالنے کا آلہ (۴)
 چھوٹی توپ جو بادشاہوں کے ساتھ آؤنٹ پر رہتی تھی۔
 زنبور خانہ - (ع - ف - ا - مذ) - بھڑوں کا چھتا۔
 زنبور مسرخ - (ع - ف - ا - مذ) - تکیا۔
 زنبور عسل - (ع - ف - ا - مذ) - شہد کی مکھی۔
 زنبورچی - (ز - م - ب - چی) - (ف - ا - مذ) - توپ چلانے والا۔
 زنبورک - (ز - م - ب - ک) - (ف - ا - م) - (ا) چھوٹی توپ۔
 زنبورک - (ز - م - ب - ک) - (ف - ا - مذ) - (ا) زنبور (۲) شہد کی بڑی مکھی (۳)
 لنگری (۴) ایک قسم کی تار جس کے دو طرف کتوں کے ہوتے ہیں۔
 زنبوری - (ز - م - ب - ری) - (ف - ص) - جامی دار۔
 زنبیلیل - (ز - م - بیل) - (ف - ا - م) - (ا) لنگری جو کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی
 جو (۲) فیروں کا کاسہ جو خشک کتوں سے بنا ہو (۳) جمولی - پھولی - جمولا۔

جمع : زنا بیل۔

زنبیل (باف) ساز۔ (ف۔ ا۔ مذ) زنبیل بنانے والا۔

زنبیل عمر عتار۔ (ف۔ ا۔ مذ) ایک روایتی قبیل جو عمر عتار کے پاس تھی جو چاہتا تھا اس میں رکھ لیتا تھا (۲) ایسا قبیلہ جس میں بہت سی چیزیں سما جائیں۔

زنجبیل۔ (زنج۔ بیل) (ع۔ ا۔ مٹ) (۱) سونٹھ (۲) بہشت کی ایک نہر کا نام۔ زنجبیر (زن۔ جیر) (ف۔ ا۔ مٹ) (۱) دروازے کی گنڈی (۲) بیڑی (۳) لڑی سلسلہ (۴) دھات کے چھوٹے چھوٹے حلقوں کی لڑی (۵) فیل کے ساتھ تعداد بھر کرنے کے لیے جیسے چیمس زنجیر فیل۔

زنجیر بندی۔ (ف۔ ا۔ مٹ) (۱) سلسلہ (۲) قطار۔

زنجیر توڑنا۔ (ا۔ محاورہ) (۱) آزادی کی خواہش میں بے تاب ہو کر زنجیر توڑنے کی کوشش کرنا۔ (۲) بہت جوش یا عصبیت میں بھرا ہونا۔

زنجیر توڑنا۔ (ا۔ محاورہ) زنجیر ٹکڑے ٹکڑے کر دینا (دیوانگی میں)۔

زنجیر داد۔ (ف۔ ا۔ مٹ) وہ زنجیر جو نوشیرواں نے اپنے محل کے آگے گھنٹا باندھ کر لٹکانی تھی تاکہ فریادی اسے بلا کر بادشاہ کو بلا سکیں۔

زنجیر دار۔ (ف۔ صفت) سلتے دار۔ جس پر زنجیر بھی ہوتی ہو۔

زنجیر در۔ (ف۔ ا۔ مٹ) دروازے کی گنڈی۔

زنجیر دینا۔ (ا۔ محاورہ) گنڈی لگانا۔

زنجیر ڈالنا۔ (ا۔ محاورہ) دیوانے یا قیدی کے ہاتھ پاؤں میں زنجیر باندھنا۔

زنجیر جنوں۔ (ف۔ ا۔ مٹ) وہ زنجیر جو دیوانے آدمی کو ڈالتے ہیں۔

زنجیر عدل۔ وہ زنجیر جو شہنشاہ جہانگیر نے اپنے محل میں اس لیے لگائی تھی کہ داد و سخا اس کے ذریعے بادشاہ تک فریاد پہنچا سکیں۔ نیز دیکھیے

زنجیر داد۔

زنجیر عرش کھڑکانا۔ (ا۔ محاورہ) دعا کو بارگاہ خداوندی تک پہنچانے کے لیے عجز و زاری کرنا۔

زنجیر کرنا۔ (ا۔ محاورہ) (۱) پاؤں میں زنجیر ڈالنا (۲) گرفتار یا اسیر کرنا۔ (۳) زنجیر لگانا۔

زنجیر کھڑکانا۔ (ا۔ محاورہ) زنجیر زور سے بلانا۔

زنجیر میں پہننا۔ (ا۔ محاورہ) قید ہونا۔

زنجیرہ۔ (زن۔ پی۔ رکہ) (ف۔ ا۔ مذ) (۱) کوئی چیز جو زنجیر کی شکل کی ہو (۲) بنا ہوا ڈورا جو زنجیر کی شکل کا بنایا جاتا ہے (۳) کپڑے وغیرہ پر لکھا ہوا حلقہ دار سلسلہ۔ لہریا۔ کٹھا۔ زنجیر دار سلائی (۴) تصویر کے گرد کنا رہ۔

(۵) سلتے جو سطح آب پر پائے جاتے ہیں (۶) زنجیر گردن۔ (۷) (۸) ناخنوں پر سفید نشان (۹) دو الفاظ کو جدا کرنے کا نشان۔

زنجیرہ بندی۔ ایک چیز کا دوسری چیز کے واسطے لازمی ہونا۔

زنجیری۔ (زن۔ پی۔ ری) (ف۔ صفت) (۱) زنجیر میں بندھا ہوا (۲) پاگل۔

دیوانہ (۳) (مذ) قیدی (۴) دیوانہ شخص (۵) زنجیر کی تصنیف۔

زنجیا۔ (زن۔ خا۔ اژ۔ ا۔ مذ) اصل فارسی لفظ زنگ سے (۱) وہ مرد جو عورتوں کی طرح بات چیت یا حرکات کرے۔ زنانہ (۲) جزدل۔ نامرد۔

زنجدان۔ (زن۔ خ۔ دان) (ف۔ ا۔ مٹ) ٹھوڑی۔

زندان۔ (زن۔ دان) (ف۔ ا۔ مذ) قید خانہ۔ جیل۔

زندانی۔ (زن۔ دان) (ف۔ ا۔ مذ) قیدی۔ گرفتار شدہ مجرم۔

زندگہ۔ (زن۔ دقہ) (ع۔ ا۔ مذ) (۱) گزربے دینی۔ الحاد (۲) منافقت۔

زندگانی زندگی۔ (زن۔ دگہ۔ گانی۔ زن۔ ذبگ) (ف۔ ا۔ مٹ) زینت حیات۔ بیون۔ عمر۔

زندگانی (زندگی) پر خاک۔ (ا۔ محاورہ) (۱) کلمہ نفیس، زندگی پر لعلت۔

زندگی آخر ہونا۔ (ا۔ محاورہ) زندگی تمام ہونا۔ موت کا وقت قریب ہونا۔

زندگی بخشا۔ (ا۔ محاورہ) پیدا کرنا۔ زندہ کرنا۔ جلانا۔

زندگی بخش۔ (ف۔ ا۔ صفت) وہ جو زندگی عطا کرے۔

زندگی بسر کرنا۔ (ا۔ محاورہ) عمر گزارنا۔

زندگی بھاری ہونا۔ (ا۔ محاورہ) کسی صدمہ یا بیماری کی وجہ سے مرنے کو بھی چاہنا۔ جینا دو بھر ہونا۔

زندگی بھر۔ (ف۔ صفت) تمام عمر۔

زندگی تلخ ہونا۔ (ا۔ محاورہ) اس قدر تکلیف ہونا کہ جینا دو بھر ہو جائے۔

زندگی حباب ہے۔ (ا۔ مقولہ) زندگی پانی کے ٹپکنے کی طرح ہے زندگی نا بایندہ اور دائمی ہے۔

زندگی دو بھر ہونا۔ (ا۔ محاورہ) زندگی بھاری ہونا۔ جان آجین ہونا۔

زندگی زنده دلی کا نام ہے، مردہ دل خاک جیسا کرنے میں۔ (ا۔ مقولہ) انسان کو خوش باش رہنا چاہیے، مردہ دل کی زندگی بے کار ہے۔

زندگی سے (بیزار) تنگ ہونا۔ (ا۔ محاورہ) جینے سے تنگ آنا مرنے کو بھی چاہنا۔

زندگی سے مایوس ہونا۔ (ا۔ محاورہ) جینے کی امید نہ رہنا۔

زندگی سے ہاتھ اٹھانا (دھوننا)۔ مرنے کے لیے تیار ہونا۔ جینے سے مایوس ہونا۔

زندگی تشریح ہے۔ (ا۔ روزمرہ) اگر جیتے رہے۔

زندگی عطا کرنا۔ (ا۔ محاورہ) زندگی بخشنا۔

زندگی کا ٹٹنا۔ (ا۔ محاورہ) عمر بسر کرنا۔

زندگی کا جام پینا۔ کسی کی سلامتی یا تندرستی کا جام پینا۔ جام صحت پینا۔

زندگی کے دن پورے کرنا۔ (ا۔ محاورہ) عمر رنج و تکلیف میں گزارنا۔

زندگی مستعار۔ (ف۔ ا۔ مٹ) چند روزہ زندگی۔

زندگی موت کسی کے ہاتھ ہونا۔ (ا۔ محاورہ) کسی کا پورا اختیار ہونا۔

زندگی میں۔ جیتے جی۔

زندگی میں موت کا مزہ چکھنا۔ (ا۔ محاورہ) بے حد تکلیف ہونا۔ سخت مصیبت پر ڈنا۔

زندگی دیال ہونا۔ (ا۔ محاورہ) مصیبت میں عمر بسر ہونا۔ جینا دو بھر ہونا۔

زندگی ہونا۔ (ا۔ محاورہ) عمر ہونا۔ دیر تک زندہ رہنا۔

زندہ۔ (زن۔ دہ) (ف۔ صفت) (۱) جیتا (۲) جان دار۔ ذی روح۔ ذی حس۔

(۳) تروتازہ۔ مسر سبز (۴) مشتعل۔ سگلتی ہوئی۔

زندہ آنا۔ (ا۔ محاورہ) جیتے جی واپس آنا۔

زندہ اٹھالینا۔ خدا کا کسی شخص کو آسمان پر بٹھانے کی طرح کہ کسملاؤں

کے اعتقاد کے بموجب حضرت یسے کو اٹھایا۔
 زندہ باد (باش)۔ (دعا) جیتے رہو۔ سلامت رہو۔
 زندہ پانا۔ (عامورہ) جیتا دیکھنا۔
 زندہ پیر۔ (ف۔ ا۔ مذ) وہ بزرگ شخص جو زندگی میں احترام و تعظیم کے لائق ہو۔

زندہ جاوید۔ (ن۔ صفت) ہمیشہ کے لیے زندہ نہ مرنے والا۔ اُمّ۔
 زندہ دار۔ (ن۔ صفت) بہت جاگنے والا۔
 زندہ داران شب۔ (ف۔ ا۔ مذ) وہ جو راتوں کو جاگتے ہیں۔ چوکیدار
 (۷) رات کو عبادت کرنے والے لوگ۔
 زندہ درگور۔ (ن۔ صفت) سخت مصیبت میں مبتلا۔
 زندہ دل۔ (ف۔ صفت) خوش مزاج۔ ظریف۔
 زندہ دلی۔ (ن۔ ا۔ صفت) خوش طبعی۔ دل لگی۔ ظرافت۔ چیل۔
 زندہ کرنا۔ (ا۔ عامورہ) (۱) جلانا۔ زندگی بخشنا (۲) فرحت دینا۔
 زندہ گروا دینا۔ (صن۔ مرکب) زندہ دین کر دینا۔
 زندہ نگلنا۔ (ا۔ عامورہ) کسی مصیبت سے جینے جی نکل آنا۔
 زندہ نہ چھوڑنا۔ (ا۔ عامورہ) مار ڈالنا۔
 زندہ نہ دیکھنا۔ (ا۔ عامورہ) مر جانے کی وجہ سے کسی شخص کو نہ دیکھنا۔
 زندہ ہونا۔ (ا۔ عامورہ) (۱) جی پڑنا۔ جینا (۲) کسی دھات کے کٹنے کا اپنی اصل حالت پر آنا۔

زنگی کی سیاہی کسی رنگ نہیں جاتی۔ (۱۰) (۱۱) پیدائشی عیب کسی طرح نہیں مٹتا۔
 زنگی ہٹ۔ (ا۔ صفت) کالی اور چھوٹی ہٹ۔ بلیلیہ سیاہ۔
 زندہ جامہ ناپاک گاڑاں برسنگ۔ (ن۔ صفت) جس کپڑے کو دعویٰ پتھر پر مارتے ہیں۔ عیب دار کا عیب دوز کرنے کے لیے سختی کی ضرورت ہے۔
 زینہار۔ (زن۔ ہار) (ن۔ صفت) ہرگز کبھی نہیں خبردار۔

ز

زواد۔ (ز۔ وار) (ن۔ ا۔ صفت) ایک قسم کی خوشبو۔
 زوار۔ (ز۔ وار) (ن۔ صفت) زیارت کرنے والا۔ زائر۔ باتری۔
 زوال۔ (ز۔ وال) (ن۔ ا۔ مذ) (۱) عروج کی ضد (۲) کمی۔ گھٹنا۔ (۳) تنازل (۴) نقصان (۵) ناکامیابی (۶) ترقی اور عروج جانا (۷) ہٹنا (۸) مصیبت (۹) سورج کا نصف النہار سے نیچے آنا۔
 زوال آمادہ (پندیر)۔ (ن۔ ف۔ صفت) گھٹنے والا۔ تیز قبول کرنے والا۔
 زوال پر ہونا۔ (ا۔ عامورہ) (۱) تنازل ہونا۔ گھٹنا (۲) سورج کا عروج ہونے کے قریب ہونا۔
 زوال کا وقت۔ (ن۔ ف۔ ا۔ مذ) وہ وقت جب آفتاب نصف النہار سے برک جائے۔ (دوپہ سے ذرا بعد کا وقت۔ دھوپ ڈھیلے کا وقت۔
 زوال ماہ (مہر)۔ (ن۔ ف۔ ا۔ مذ) چاند کا بد ہونے کے بعد گھٹنا۔ ایزھرا پاکھ
 زواید۔ (ز۔ واید) (ن۔ ا۔ مذ) نام کی جمع۔ فضول اور بھٹ سے خارج باتیں۔
 زوپین۔ (ز۔ پین) (ن۔ ا۔ مذ) (۱) چھوٹا دو زبانہ۔ دو شاخوں والا نیزہ (۲) (مذ) کاؤس کا ایک بیٹا (۳) صفت) شاعرانہ موسیقارانہ۔
 زوج۔ (ز۔ و) (ن۔ ا۔ مذ) (۱) حفت۔ جوڑا (۲) بیوی خاوند میں سے کوئی ایک (۳) شوہر (۴) وہ عدد جو کسر کے بغیر نصف ہو سکے۔ جمع: ازدواج۔
 زوج الزوج۔ (ن۔ ف۔ ا۔ مذ) وہ عدد جو دو برابر تقسیم ہونے کے بعد چھ دو برابر پورا تقسیم ہو سکے جیسے۔ ۶۔ ۸۔ ۱۶۔
 زوج الفرد۔ (ن۔ ف۔ ا۔ مذ) وہ عدد جو حفت اور طاق پر پورا تقسیم ہو سکے۔ جیسے۔ ۹۔ ۱۲۔ ۱۸۔
 زوجہ۔ (ز۔ و) (ن۔ ا۔ صفت) بیوی۔ استری۔ اہلیہ۔ جمع: ازدواج۔
 زوجہ مطلقہ۔ (ن۔ ا۔ صفت) طلاق دی ہوئی عورت۔
 زوجہ منکوحہ۔ (ن۔ ا۔ صفت) نکاح کی ہوئی عورت۔ بیابہتا بیوی۔
 زوجیت۔ (ز۔ و) (ن۔ ا۔ صفت) نکاح۔ شادی۔ عقد۔
 زوجیت میں لانا۔ (ا۔ عامورہ) بیوی بنانا۔ نکاح میں لانا۔ عقد کرنا۔
 زوجین۔ (ز۔ و) (ن۔ ا۔ صفت) (۱) مذ زوج کا تین تہ زویاں بیوی۔ زن و شوہر۔
 زود۔ (ن۔ صفت) جلد۔ شاب۔ فوراً۔ اچھی۔ معاً۔
 زود آشتا۔ (ن۔ صفت) بہت جلد دوست بن جانے والا۔

زبدلیق۔ (زن۔ بلیق) (ن۔ ا۔ مذ) کتاب ٹنڈ کا متفقہ۔ بے دین کا فرجوس
 وہ شخص جو خدا کی وحدانیت کا قائل نہ ہو۔ جمع: زنادقہ۔
 زنگ۔ (Zinc) (انگ۔ ا۔ مذ) جست۔ ایک قسم کی دھات۔
 زنگ آلمنٹ (Zinc Intment) ایک قسم کا مرہم جو زنگ کو خشک کر دیتا ہے۔
 زنگ لوشن۔ (Zinc Lotion) آٹھ میں ڈالنے کا ایک مرہم۔
 زنگو گرافی۔ (Zinc Graphy) (زن۔ کو۔ گ۔ ن۔ ا۔ ف۔ ا۔ مذ) (۱) (ن۔ ا۔ صفت) (۲) دھات کی تختیوں پر چھاپنے کا فن۔
 زنگ۔ (ن۔ ا۔ مذ) (۱) چھوٹا گھنٹہ۔ گھنٹی (۲) دھات کا میل۔ مورچہ (۳) خصوصاً لوہے کا میل (۴) کدورت (۵) سیاہی۔ تاریکی۔ افریقہ کا ایک ملک۔ ہمیشہ۔
 زنگ آلود۔ زنگ آلودہ۔ زنگ خور وہ۔ (ن۔ صفت) زنگ لگا ہوا۔
 زنگ آنا۔ (ا۔ عامورہ) زنگ لگنا۔
 زنگ کا کھا جانا۔ (ا۔ عامورہ) زنگ سے دھات کا بوسیدہ ہو جانا۔
 زنگار۔ (زن۔ گار) (ن۔ ا۔ مذ) (۱) زنگ (۲) تانبے کا زنگ یا کاسڈ (۳) نیلا تھوٹھا جو تانبے کی کجی اور گندھک سے بل کر بنتا ہے۔
 زنگار کا پھلنا۔ (ن۔ ا۔ مذ) وہ پھا جس پر مرہم زنگار لگایا ہو۔
 زنگاری۔ (زن۔ گاری) (ن۔ صفت) زنگار کے رنگ کا۔ سبز۔ ہرا۔
 زنگارہ۔ (زن۔ گارہ) (ن۔ ا۔ مذ) (۱) بجز۔ گھنٹہ (۲) گھنٹو (۳)
 زنگی۔ (زن۔ گی) (ن۔ صفت) عیشی۔ شیدی۔ زنجبار کا باشندہ (مجازاً) سیاہ نام۔

زور دینا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) قوت دینا۔ زور بڑھانا (۲) شطرنج کے ہرے کو دوسرے ہرے کا سہارا دینا (۳) کسی لفظ کے تلفظ کو خاص لہجہ سے ادا کرنا جس سے یہ ظاہر ہو کہ یہ لفظ قابلِ توجہ ہے۔
 زور ڈالنا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) مجبور کرنا۔ دباؤ ڈالنا (۲) کسی طرف زیادہ قوت دکھانا (۳) دبانا۔ تنگ کرنا (۴) بوجھ ڈالنا۔
 زور ڈھے جانا۔ (۱۔ محاورہ) مزور جاتا رہنا۔
 زور زور سے۔ (۱۔ متعلق فعل) (۱) قوت سے طاقت سے (۲) تیزی سے (۳) سختی سے۔ چلا چلا کے۔
 زور شور۔ (ن۔ ۱۔ مذ) (۱) تیزی و تندگی۔ جوش و خروش (۲) پڑھا ڈ۔ (۳) شدت۔ زیادتی (۴) شوق۔ محنت۔
 زور شور سے۔ (۱۔ متعلق فعل) (۱) جوش و خروش سے (۲) شوق سے۔ محنت سے (۳) شان و شوکت سے۔
 زور رضا بطر۔ (ن۔ ۱۔ مذ) جبر۔ سختی۔ زبردستی۔
 زور طبع۔ زور طبیعت۔ (ن۔ ۱۔ مذ) نئے مضامین اور نئے خیالات پیدا کرنے کی قوت۔
 زور قلم۔ (ن۔ ۱۔ مذ) سختی۔ زیادتی۔
 زور قلم۔ (ن۔ ۱۔ مذ) لکھنے کی طاقت۔ تحریر کا زور۔
 زور کا۔ (۱) پرجوش (۲) شدت کا (۳) بلند جیسے زور کا لہرہ۔
 زور کرنا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) طاقت آزمانا (۲) دو پہلو انوں کا مشتق کے لیے لڑنا (۳) بڑھانا۔ زیادہ ہونا (۴) کوشش کرنا۔
 زور کوٹ کوٹ کر بھرا ہونا۔ (۱۔ محاورہ) بہت طاقت ہونا۔ دگ دگ میں قوت ہونا۔
 زور کے آگے ضرب نہیں چلتی۔ (۱۔ مثل) طاقت ورا آدمی پر معمولی ضربات کا اثر نہیں ہوتا۔
 زور کھٹنا۔ (۱۔ محاورہ) طاقت کم ہونا۔
 زور لگانا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) طاقت صرف کرنا (۲) کوشش کرنا سہی کرنا۔ (۳) جمت کرنا (۴) دھکیلنا۔ آگے بڑھنا (۵) ہاتھ لگانا (۶) مدد کرنا۔
 زور مارنا۔ (۱۔ محاورہ) نہایت کوشش کرنا۔ سارا زور لگادینا۔
 زور مند۔ (ن۔ صفت) طاقت درمغبوط۔
 زور میں دانا بھرنا۔ (۱۔ محاورہ) پوری قوت پر ہونا۔
 زور نکال دینا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) قوت کھٹا دینا۔ کمزور کر دینا (۲) غور مٹا دینا۔
 زور نہ چیلنا۔ (۱۔ محاورہ) قابو نہ چیلنا۔
 زور نہ عقلم عقل کی کوتاہی۔ (۱۔ مثل) (۱) بے عقل آدمی عموماً ظالم ہوتے ہیں (۲) کسی کے جبر یا سختی سے نقصان نہیں پہنچا، اپنی بے وقوفی کی وجہ سے پہنچا ہے۔
 زوروں پر چڑھنا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) طاقت میں بھرنا۔ بہت تیار ہونا۔ (۲) طینیانی پرانا دریا کا (۳) موٹا تازہ ہونا۔ جوانی میں بھرنا (۴) کمال کو پہنچنا۔
 زوروں پر تڑھنا۔ (۱۔ محاورہ) لگتا تڑھتی ہونا۔ بہت چہل پہل ہونا۔

زور پشمان۔ (ن۔ صفت) بہت جلد پھتانے والا۔
 زور حس۔ (ن۔ صفت) جلد محسوس کرنے والا۔ حساس۔
 زور حس۔ (ن۔ صفت) تیز فہم۔ بات کی تکرار جلد سمجھنے والا۔
 زور رخ۔ (ن۔ صفت) جلد رخا ہوجانے والا۔
 زور فریب زور لاغر۔ (ن۔ مثل) جو ایک مانے یا ایک حالت پر قائم نہ رہے۔ گھڑی میں کچھ اور گھڑی میں کچھ۔
 زور فہم۔ (ن۔ صفت) تیز فہم۔ ہوشیار۔ ذکی۔
 زور و نویس۔ (ن۔ صفت) جلد جلد کھنسنے والا۔
 زوروی۔ (ن۔ مذ) (ن۔ ۱۔ مٹ) جلدی۔ شتابی۔
 زور۔ (ن۔ ۱۔ مذ) دغا۔ فریب۔ لکر۔
 زور۔ (ن۔ ۱۔ مذ) (۱) طاقت۔ قوت۔ توانائی۔ بل۔ شکستی (۲) اختیار۔ بس۔ قابو (۳) زبردستی۔ علم (۴) کوشش۔ جدوجہد (۵) محنت۔ مشقت (۶) ہسارا۔ مدد (۷) وزن۔ بوجھ (۸) اونکھا آدمی (۹) ہسارا جو شطرنج کے ایک ہرے کو دوسرے سے ہوتا ہے (۱۰) صفت قیامت کا۔ غضب کا (۱۱) اڑکھا۔ زوال۔
 زور آزما۔ (ن۔ صفت) طاقت آزمانے والا۔ پہلوان۔
 زور آزمانا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) طاقت کا امتحان کرنا (۲) قوت دکھانا۔
 زور آزمائی۔ (ن۔ ۱۔ مٹ) طاقت آزمانا۔ قوت دکھانا۔ کیش۔ بل دکھانا۔
 زور آنا۔ (۱۔ محاورہ) طاقت آنا۔ قوی ہونا۔ توانا ہونا۔
 زور آور۔ (ن۔ صفت) (۱) طاقت ور۔ قوی (۲) زبردست۔
 زور آوری۔ (ن۔ ۱۔ مٹ) (۱) طاقت۔ توانائی (۲) زبردستی۔
 زور بادشاہ داؤں وزیر۔ (مثل) طاقت بادشاہ جیسی داؤں وزیر جیسی۔
 زور بازو۔ (ن۔ ۱۔ مذ) ذاتی قوت۔ بہمت۔
 زور بانڈھنا۔ (۱۔ محاورہ) قوت پکڑنا۔
 زور بڑھنا۔ (۱۔ محاورہ) طاقت زیادہ ہونا۔ قوت بڑھنا۔
 زور بل۔ (ن۔ ۱۔ مذ) قوت۔ طاقت۔
 زور پر۔ (۱) ترقی پر۔ کمال پر (۲) حوصلے پر۔
 زور پڑنا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) بوجھ پڑنا۔ دباؤ پڑنا (۲) مجبور کیا جانا (۳) طاقت صرف ہونا۔
 زور پکڑنا۔ (۱۔ محاورہ) قوت حاصل کرنا۔ بڑھنا۔ زیادہ ہونا۔
 زور سید کرنا۔ (۱۔ محاورہ) طاقت بڑھانا۔ طاقت حاصل کرنا۔
 زور توڑنا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) قوت کم کرنا یا زائل کرنا (۲) دباؤ کم کرنا (۳) گھٹنا۔ توڑنا۔
 زور جتنا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) رعب ڈانا۔ حکومت دکھانا۔ دباؤ ڈالنا (۲) طاقت ظاہر کرنا۔
 زور چیلنا۔ (۱۔ محاورہ) رعب سے یا زبردستی کوئی کام لینا۔
 زور چیلنا۔ (۱۔ محاورہ) بس چیلنا۔ قابو چیلنا۔
 زور دار۔ (ن۔ صفت) (۱) پرجوش (۲) قوی۔ طاقت ور (۳) وہ جنگ جس کے اڑنے میں ڈور خوب تنی رہے اور جھول نہ پڑے۔
 زور دکھانا۔ (۱۔ محاورہ) غلبہ دکھانا۔ رعب ڈالنا۔ حکومت بتانا۔

کس کام کا بہت زود رہنا۔

زود ازوری - (زود - را - زوری) (۵ - ۱۰ مٹ) زبردستی - علم۔

زورق - (زورق) (۱ - مٹ) (۱۱ کشتی) چھوٹا ڈونگا (۲) ایک قسم کی ٹرلی جو درویش پھرتے ہیں۔ کشتی ٹاٹری۔

زوف - دار (عنبت) - تفت - پھسکار۔

زوف زاف کرنا - (۱ - محاورہ) لعنت طامت کرنا۔

زوف ہے - (کلذ فزین) لعنت ہے۔ تفت ہے۔

زوف - (زوف) (۱ - ۱۰) ایک قسم کا پودا جس کے پھول اور پتے شربت وغیرہ بنانے کے کام آتے ہیں۔

زونہ - (Zone) (۱) ایک علاقہ۔ (۲) علاقہ۔ (۳) متوازی خطوط کے درمیان واقع ہیں (۴) علاقہ۔ (۵) متوازی خطوط کے درمیان واقع ہیں (۶) علاقہ۔ (۷) علاقہ۔

ز - ذہ

زہ - (۱ - ۱۰) (۱) جینا (۲) بچہ۔ (۳) اولاد (۴) حرف تین (۵) شاہنشاہ مرجا بہت خوب (۶) (۷) مٹ) کمان کا چمکہ (۸) کوئی چیز جو بیک دے کر

سوراخ سے نکالی (۹) بیس۔ (۱۰) بیس۔ (۱۱) بیس۔ (۱۲) بیس۔ (۱۳) بیس۔ (۱۴) بیس۔ (۱۵) بیس۔ (۱۶) بیس۔ (۱۷) بیس۔ (۱۸) بیس۔ (۱۹) بیس۔ (۲۰) بیس۔

زہ گیر - (۱ - ۱۰) (۱) بیس۔ (۲) بیس۔ (۳) بیس۔ (۴) بیس۔ (۵) بیس۔ (۶) بیس۔ (۷) بیس۔ (۸) بیس۔ (۹) بیس۔ (۱۰) بیس۔

زہ گمان کی زہ کو کہتے ہیں۔

زہ کا ب - (۱ - ۱۰) (۱) بیس۔ (۲) بیس۔ (۳) بیس۔ (۴) بیس۔ (۵) بیس۔ (۶) بیس۔ (۷) بیس۔ (۸) بیس۔ (۹) بیس۔ (۱۰) بیس۔

زہ کا د - (۱ - ۱۰) (۱) بیس۔ (۲) بیس۔ (۳) بیس۔ (۴) بیس۔ (۵) بیس۔ (۶) بیس۔ (۷) بیس۔ (۸) بیس۔ (۹) بیس۔ (۱۰) بیس۔

زہ کا ر - (۱ - ۱۰) (۱) بیس۔ (۲) بیس۔ (۳) بیس۔ (۴) بیس۔ (۵) بیس۔ (۶) بیس۔ (۷) بیس۔ (۸) بیس۔ (۹) بیس۔ (۱۰) بیس۔

زہ کا ز - (۱ - ۱۰) (۱) بیس۔ (۲) بیس۔ (۳) بیس۔ (۴) بیس۔ (۵) بیس۔ (۶) بیس۔ (۷) بیس۔ (۸) بیس۔ (۹) بیس۔ (۱۰) بیس۔

زہ کا ح - (۱ - ۱۰) (۱) بیس۔ (۲) بیس۔ (۳) بیس۔ (۴) بیس۔ (۵) بیس۔ (۶) بیس۔ (۷) بیس۔ (۸) بیس۔ (۹) بیس۔ (۱۰) بیس۔

زہ کا ط - (۱ - ۱۰) (۱) بیس۔ (۲) بیس۔ (۳) بیس۔ (۴) بیس۔ (۵) بیس۔ (۶) بیس۔ (۷) بیس۔ (۸) بیس۔ (۹) بیس۔ (۱۰) بیس۔

زہ کا ق - (۱ - ۱۰) (۱) بیس۔ (۲) بیس۔ (۳) بیس۔ (۴) بیس۔ (۵) بیس۔ (۶) بیس۔ (۷) بیس۔ (۸) بیس۔ (۹) بیس۔ (۱۰) بیس۔

زہ کا ک - (۱ - ۱۰) (۱) بیس۔ (۲) بیس۔ (۳) بیس۔ (۴) بیس۔ (۵) بیس۔ (۶) بیس۔ (۷) بیس۔ (۸) بیس۔ (۹) بیس۔ (۱۰) بیس۔

زہ کا خ - (۱ - ۱۰) (۱) بیس۔ (۲) بیس۔ (۳) بیس۔ (۴) بیس۔ (۵) بیس۔ (۶) بیس۔ (۷) بیس۔ (۸) بیس۔ (۹) بیس۔ (۱۰) بیس۔

طرف سے نکلنے یا بڑی ہونا۔

زہر بھری آنکھ - (۱ - مٹ) (۱۱) مٹنے کی نظر (۱۲) شوخ آنکھ۔

زہر پھیلنا - (۱ - مٹ) (۱۱) مٹنے کی نظر (۱۲) شوخ آنکھ۔

زہر پھلنا - (۱ - مٹ) (۱۱) مٹنے کی نظر (۱۲) شوخ آنکھ۔

زہر پھلنا - (۱ - مٹ) (۱۱) مٹنے کی نظر (۱۲) شوخ آنکھ۔

زہر پھلنا - (۱ - مٹ) (۱۱) مٹنے کی نظر (۱۲) شوخ آنکھ۔

زہر پھلنا - (۱ - مٹ) (۱۱) مٹنے کی نظر (۱۲) شوخ آنکھ۔

زہر پھلنا - (۱ - مٹ) (۱۱) مٹنے کی نظر (۱۲) شوخ آنکھ۔

زہر پھلنا - (۱ - مٹ) (۱۱) مٹنے کی نظر (۱۲) شوخ آنکھ۔

زہر پھلنا - (۱ - مٹ) (۱۱) مٹنے کی نظر (۱۲) شوخ آنکھ۔

زہر پھلنا - (۱ - مٹ) (۱۱) مٹنے کی نظر (۱۲) شوخ آنکھ۔

زہر پھلنا - (۱ - مٹ) (۱۱) مٹنے کی نظر (۱۲) شوخ آنکھ۔

زہر پھلنا - (۱ - مٹ) (۱۱) مٹنے کی نظر (۱۲) شوخ آنکھ۔

زہر پھلنا - (۱ - مٹ) (۱۱) مٹنے کی نظر (۱۲) شوخ آنکھ۔

زہر پھلنا - (۱ - مٹ) (۱۱) مٹنے کی نظر (۱۲) شوخ آنکھ۔

زہر پھلنا - (۱ - مٹ) (۱۱) مٹنے کی نظر (۱۲) شوخ آنکھ۔

زہر پھلنا - (۱ - مٹ) (۱۱) مٹنے کی نظر (۱۲) شوخ آنکھ۔

زہر پھلنا - (۱ - مٹ) (۱۱) مٹنے کی نظر (۱۲) شوخ آنکھ۔

زہر پھلنا - (۱ - مٹ) (۱۱) مٹنے کی نظر (۱۲) شوخ آنکھ۔

زہر پھلنا - (۱ - مٹ) (۱۱) مٹنے کی نظر (۱۲) شوخ آنکھ۔

زہر پھلنا - (۱ - مٹ) (۱۱) مٹنے کی نظر (۱۲) شوخ آنکھ۔

زہر پھلنا - (۱ - مٹ) (۱۱) مٹنے کی نظر (۱۲) شوخ آنکھ۔

زہر پھلنا - (۱ - مٹ) (۱۱) مٹنے کی نظر (۱۲) شوخ آنکھ۔

زہر پھلنا - (۱ - مٹ) (۱۱) مٹنے کی نظر (۱۲) شوخ آنکھ۔

زہر پھلنا - (۱ - مٹ) (۱۱) مٹنے کی نظر (۱۲) شوخ آنکھ۔

زہر پھلنا - (۱ - مٹ) (۱۱) مٹنے کی نظر (۱۲) شوخ آنکھ۔

زہر پھلنا - (۱ - مٹ) (۱۱) مٹنے کی نظر (۱۲) شوخ آنکھ۔

زہر پھلنا - (۱ - مٹ) (۱۱) مٹنے کی نظر (۱۲) شوخ آنکھ۔

زہر پھلنا - (۱ - مٹ) (۱۱) مٹنے کی نظر (۱۲) شوخ آنکھ۔

زہر پھلنا - (۱ - مٹ) (۱۱) مٹنے کی نظر (۱۲) شوخ آنکھ۔

زہر پھلنا - (۱ - مٹ) (۱۱) مٹنے کی نظر (۱۲) شوخ آنکھ۔

زہر پھلنا - (۱ - مٹ) (۱۱) مٹنے کی نظر (۱۲) شوخ آنکھ۔

زہر پھلنا - (۱ - مٹ) (۱۱) مٹنے کی نظر (۱۲) شوخ آنکھ۔

زیادہ گوئی کرنا۔ (۱- محاورہ) مبالغہ کرنا۔ بات بڑھا کر کہنا۔ فضول بکنا۔ بڑھانکنا۔
زیادہ مٹھائی میں کیڑے پڑتے ہیں۔ [مٹھ] زیادہ دوستی یا بے تکلفی میں رنج ہوتا ہے۔
زیادہ ہونا۔ (۱- محاورہ) باقی بچنا۔ فاضل ہونا (۲) اٹھا یا جانا۔ ختم ہونا۔
زیادہ ہے۔ (۱- محاورہ) (۱) برکت ہے۔ بہت ہے (۲) نہیں ہے۔
زیارت۔ (زہ- یا۔ زت) (ع۔ ۱- مٹھ) (۱) کسی مہنگم مقام، چیز یا آدمی کا دیکھنا راج۔ مقدس مقام کا نظارہ (۲) کسی بزرگ کا مقبرہ۔ آستانہ۔ پرستش گاہ۔ درگاہ (۳) سلام۔
زیارت بزرگاں کفارہ گناہ [نیشن] بزرگوں کی زیارت سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔
زیارت گاہ۔ (ع۔ ۱- مٹھ) آستانہ۔ مقدس مقام۔ درگاہ۔
زیارت گاہ خاص و عام ہونا۔ (۱- محاورہ) ایسی جگہ یا شخص جس کی ہر کوئی جاکر زیارت کرے (۲) مقبول عام۔
زیارت نامہ۔ (ع۔ ۱- مذ) (۱) زیارت کے لیے جانے کا پاپورٹ (۲) سلام جو زیارت کے دوران میں پڑھا جائے۔
زیارت نصیب ہونا۔ (۱- محاورہ) کسی بزرگ یا مقدس مقام کو دیکھنا۔
زیارتی۔ (زہ- یا۔ رتی) (ع۔ ۱- مذ) زیارت کرنے والا۔ نائز۔
زیالی۔ (زہ- یا۔ یال) (ع۔ ۱- مذ) ضرر نقصان بخارہ۔
زیالی (دیہہ) رسیدہ۔ (ع۔ ۱- مٹھ) وہ جس کو نقصان یا ضرر پہنچا ہو۔
زیالی کار۔ (ع۔ ۱- مٹھ) نقصان دینے والا۔ مضر۔
زیالی کاری۔ (ع۔ ۱- مٹھ) نقصان پہنچانا۔
زیب۔ (ع۔ ۱- مٹھ) آرائش۔ زینت۔ سنکار۔ خوبصورتی۔ رونق (۲) بہت سجانے والا۔ مناسب مرکبات کے آخریں جیسے تن زیب۔
زیب آغوش ہونا۔ (۱- محاورہ) مستحق کی بے لگی میں ہونا۔
زیب بدن (رقن جسم) کرنا کسی چیز کو جسم پر آراستہ کرنا۔ پہننا۔ جیم برنگانا۔
زیب دینا۔ (۱- محاورہ) بھلا لگنا۔ شو بہا دینا۔ بھلا لگنا۔ مزوں ہونا۔ خوشنا ہونا۔ سجا
زیب گوش کرنا۔ (۱- محاورہ) بات سنانا۔
زیب وزین۔ زیب و زینت۔ (ع۔ ۱- مٹھ) آرائش۔ سجھاؤ۔
زیبا۔ (زہ- یا۔ ہا) (ع۔ ۱- مٹھ) زیب دینے والا۔ خوشنا۔ خوبصورت۔ مزوں
زیبا طلعت۔ (ع۔ ۱- مٹھ) خوبصورت شکل کا حسین۔
زیباش۔ (زہ- یا۔ اش) (ع۔ ۱- مٹھ) چین۔ آرائش۔ زینت۔ شو بہا خوشنائی۔ سجھاؤ۔
زیبائی۔ (زہ- یا۔ ای) (ع۔ ۱- مٹھ) خوبی۔ خوش نمائی۔
زیبرا۔ (Zabra) (زیب) (یا) (انگ) (۱- مذ) گدھے کی قسم کا ایک جانور جس کے بدن پر دھاریاں ہوتی ہیں۔ یہ جانور افریقہ میں پایا جاتا ہے۔
زیبوق۔ (زہ- یا۔ ی) (ع۔ ۱- مذ) پارہ۔ سیما۔
زیبندہ۔ (زہ- یا۔ بن۔ وہ) (ع۔ ۱- مٹھ) زیب دینے والا۔ جم: زینندگان۔
زیبت۔ (ع۔ ۱- مذ) زیوتوں کا تیل۔
زیوتوں۔ (زہ- یا۔ ٹون) (ع۔ ۱- مذ) ایک مشہور درخت کا نام۔

خوف طاری ہونا۔
زہرہ پھٹنا۔ (۱- محاورہ) خوف یا دہشت ہونا۔ دل دھڑکانا (۲) حیرت میں رہنا (۳) شد کرنا۔
زہرہ۔ (زہ۔ یہ) (ع۔ ۱- مٹھ) (۱) ایک ستارہ کا نام۔ ناسید۔ شکر۔ لونڈنک (۲) ایک صفت جس پر ہاروت مائوت دو فرشتے عاشق ہو کر مبتلائے مذاب الہی ہوتے
زہرہ قیاس۔ (ع۔ ۱- مٹھ) زہرہ کی طرح روشن پیشانی۔ خوبصورت حسین۔
زہرہ لقا۔ (ع۔ ۱- مٹھ) زہرہ کی طرح حسین و خوبصورت۔
زہرہ پلا۔ (زہ۔ یہ۔ ل) (ع۔ ۱- مٹھ) (۱) زہرہ سے بھرا ہوا (۲) فقہاء انگیز۔
زہرہ پکی۔ (زہ۔ یہ۔ ی) (ع۔ ۱- مٹھ) زہرہ پلا کا مٹھ۔
زہے۔ (زہ۔ یہ) (ع۔ ۱- مٹھ) (۱) شاہ۔ شاہ۔ شایب۔ مرچیا۔
زہے قسمت۔ (کمزرتین) اچھی قسمت سے خوش بختی سے۔ کسی بڑے آدمی کے آنے پر کہتے ہیں۔
زہے مراتب خواب کے کہ بہ زبیداریست۔ (ع۔ ۱- مٹھ) اس خواب کا کیا کہنا جو بیداری سے بہتر ہو۔
زہے نصیب۔ (ع۔ ۱- مٹھ) خوش قسمت۔ خوش اقبال۔ خوش قسمتی۔
زہیمیر۔ (زہیمیر) (ع۔ ۱- مٹھ) (۱) بیماری سے ڈبلا۔ معنی (۲) تکلیف۔ اداس۔ پریشان۔

زئی

زئی۔ (ع۔ ۱- مذ) (۱) حیثیت عری (۲) لباس۔
زیاد۔ (زہ- یا۔ د) (ع۔ ۱- مٹھ) زیادہ کا مخفف۔
زیادت۔ (زہ- یا۔ دت) (ع۔ ۱- مٹھ) اصطلاح تو میں ایک یا زیادہ حرفوں کا زیادہ کرنا جیسے بھیر پجال سے بھیر یا پجال (۲) زیادتی۔ اضافہ۔
زیادتی۔ (زہ- یا۔ دتی) (ع۔ ۱- مٹھ) (۱) کثرت۔ (۲) اضطرار (۳) ظلم۔ جبر۔ زبردستی۔
زیادتی کرنا۔ (۱- محاورہ) جبر کرنا۔ سختی کرنا۔ زبردستی کرنا۔
زیادہ۔ (زہ- یا۔ وہ) (ع۔ ۱- مٹھ) (۱) افزوں۔ فاضل۔ بہت۔ سوا۔ ناتوا۔
زیادہ تر۔ (ع۔ ۱- مٹھ) بیش تر۔ سوا بہت زیادہ۔
زیادہ جی کر گیا عاقبت کے بدلے میں سکیم ہو گئے۔ (۱) مٹھ) باوجود بوڑھا ہونے کے زیادہ دیر تک زندہ رہنے کی خواہش پر طنز۔
زیادہ حد ادب۔ (۱) فقرہ) خط یا عرضی کے اخیر میں لکھتے ہیں کہ زیادہ عبادت بڑھانے میں ادب مانع ہے۔
زیادہ رسانی۔ (ع۔ ۱- مٹھ) (قانون) (۱) سرکاری اجازت یا معمول سے زیادہ لینا (۲) زیادہ ملی۔
زیادہ کسر۔ (ع۔ ۱- مٹھ) اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھنے والا (۲) مغزور متکبر (۳) وہ جو ایسا کام شروع کرے جسے ختم نہ کر سکے۔
زیادہ سے زیادہ۔ (۱- متعلق فعل) تعدد پر کہنا۔ بہت سے بہت۔
زیادہ کرنا۔ (۱- محاورہ) (۱) بڑھانا (۲) دسترخوان اٹھانا۔
زیادہ گو بہت باتیں کرنے والا۔ بات کو بڑھانے والا۔
زیادہ گوئی۔ (ع۔ ۱- مٹھ) فضول باتیں۔ بیہودہ بکنا (۲) مبالغہ۔

زیبٹ - (اُر۔ ا۔ مٹ) یاد گوئی۔

زیبک - (زی۔ بک) (اُر۔ صفت) (۱) بے حیثیت (۲) کوتاہ قد۔

زیبج - (ن۔ ا۔ مٹ) (۱) مہار کا دھاگا (۲) جنتری۔ تقویم۔

زیبڈ - (ن۔ ا۔ مٹ) (۱) ایک فرضی نام (۲) ایک مشہور صحافی کا نام۔

زیبیدی - (ن۔ ا۔ مٹ) (۱) حضرت زید سے منسوب۔ حضرت زید کی نسل سے۔

زیبر - (ن۔ ا۔ مٹ) (۱) نیچے۔ تھلے۔ تخت (۲) صفت (۱) کمزور کم طاقت (۳) کتر۔ گھٹیا (۴) مٹ (۱) کتر۔ بڑے ایک نشان جو حروف کے نیچے دیا جاتا ہے (۵) مدیم آواز۔ نیچا سُر (۶) ساری کا چھوٹا تار۔

زیبر (افکن) (افکن) (ن۔ ا۔ مٹ) (۱) چھوٹا تالین۔ خالی (۲) بستر (۳) ایک سُر جیسے کا چک بھی کہتے ہیں۔

زیبر اندازہ - (ن۔ ا۔ مٹ) (۱) وہ کپڑا یا پمڑا جو نئے کے نیچے فرش کی حفاظت کے لیے پھانتے ہیں۔

زیبر بار - (ن۔ صفت) (۱) بوجھ کے نیچے۔ بوجھ سے دبا ہوا (۲) احسان سے دبا ہوا (۳) مقروض۔ مدیون۔

زیبر باری - (ن۔ ا۔ مٹ) (۱) قرضے میں ہتلا ہونا (۲) اخراجات کی وجہ سے پریشانی۔

زیبر بریاں - (ن۔ ا۔ مٹ) (۱) ایک قسم کا کھانا۔

زیبر بند - (ن۔ ا۔ مٹ) (۱) وہ قسم جو گھوڑے کی زین سے گزار کر پیٹ کے نیچے باندھا جاتا ہے۔ گھوڑے کا تنگ۔

زیبر پائی - (ا۔ مٹ) (۱) ایک قسم کی زنانی جوتی۔ سیلپر۔

زیبر تاج - (ا۔ مٹ) (۱) چھوٹی بگڑی جو بڑی بگڑی کے نیچے باندھے ہیں۔

زیبر تاج - (ن۔ ا۔ مٹ) (۱) کسی محلے پر شور ہونا۔

زیبر تنگ - (ن۔ ا۔ مٹ) (۱) دیکھے زیبر بند۔

زیبر جامہ - (ن۔ ا۔ مٹ) (۱) وہ کپڑا جو گھوڑے کی پیٹھ پر زین کے نیچے ڈالتے ہیں۔

زیبر حراست - (ن۔ ا۔ مٹ) (۱) گرفتار۔ جو حالات میں ہو۔

زیبر حکومت - (ن۔ صفت) (۱) مانت۔ رعیت۔ زبر فرمان۔ زبر امر۔

زیبر خاک - (ن۔ صفت) (۱) قبریں۔ زمین میں دفن۔

زیبر دستخی - (ن۔ صفت) (۱) جس کے دستخط نیچے ہوں۔

زیبر دست - (ن۔ صفت) (۱) کمزور۔ عاجز (۲) مظلوم (۳) مانت۔

زیبر بران - (ن۔ صفت) (۱) قابو میں (عاجز یا عورت۔

زیبر زمینیں - (ن۔ صفت) (۱) زمین کے نیچے۔ قبریں۔

زیبر سایہ - (ن۔ صفت) (۱) قریب۔ نزدیک (۲) حمایت میں۔ پناہ میں۔ جساتے میں۔

زیبر سوارسی - (ن۔ صفت) (۱) وہ (عاجز) جس سے سوارسی لی جائے۔

زیبر کرنا - (ا۔ محاورہ) (۱) مغلوب کرنا۔ فتح کرنا (۲) پچھاڑنا۔

زیبر لکب - (ن۔ صفت) (۱) آہستہ۔ پریشدہ کہنا۔

زیبر مشق - (ن۔ صفت) (۱) لائق پر جڑھا ہوا۔ رواں۔ وہ چیز جس کی مشق کی جائے (۲) وہ چیز جو کھنے کی مشق کرتے وقت نیچے

رکھ لیا جاتا ہے۔

زیبر نظر - (ن۔ صفت) (۱) نگاہ میں (۲) حراست میں۔ زبر خور۔

زیبر نیکیں - (ن۔ صفت) (۱) مانت۔ حکومت میں۔ تعزف میں۔

زیبر ولیم - (ن۔ صفت) (۱) نیچا اور اونچا سُر (۲) جیلے یا نقارے کا دایاں ہایاں رخ (۳) دو چھوٹے نقاروں کی جوڑی جس میں ایک سے مدھم اور دوسرے سے بلند آواز نکلتی ہے۔

زیبر وزیر - (ن۔ صفت) (۱) تہ بالا۔ درہم برہم۔ اُلٹ پلٹ۔ تباہ (۲) کتر اور فتح۔

زیبر یک - (زی۔ یک) (ن۔ صفت) (۱) دانا۔ عقلمند۔ دانش مند۔

زیبر کی - (زی۔ کی) (ن۔ ا۔ مٹ) (۱) عقلمندی۔ دانائی۔

زیبرہ - (زی۔ زہ) (ن۔ ا۔ مٹ) (۱) ایک خوشبودار باریک بیج کا نام جو کھانوں میں ڈالا جاتا ہے۔ (۲) بیجوں کی زردی۔ زرخل۔

زیبرہ سفید - (ن۔ ا۔ مٹ) سفید رنگ کا زبرہ۔

زیبرہ سیاہ - (ن۔ ا۔ مٹ) (۱) کالے رنگ کا زبرہ۔

زیبرہ زبرہ کرنا - (ا۔ محاورہ) کوٹ کر باریک کرنا۔

زیبریں - (ز۔ یں) (ن۔ صفت) (۱) تابع فعل (۲) نیچے کا۔ پائیں۔

زیس - (زی۔ اس) (ن۔ ا۔ مٹ) (۱) یونانیوں کا سب سے بڑا دیوتا کوہ اولیس کے دیوتاؤں کا سردار۔

زیست - (ن۔ ا۔ مٹ) (۱) زندگی۔ حیات۔ عمر۔

زیست بھاری ہونا - (ا۔ محاورہ) زندگی تلخ ہونا۔ زندگی دُوبھر ہونا۔

زیست ترام ہونا - (ا۔ محاورہ) زندگی ناگوار ہونا۔

زیست سے بیزار (تخفا) - (ا۔ صفت) (۱) وہ جس کو زندگی دُوبھر ہو۔ وہ جو زندہ نہ رہنا چاہے۔

زیست کے دن بھرنا - (ا۔ محاورہ) زندگی کے بقیہ دن گزارنا۔ موت کے قریب ہونا۔

زیخ - (ن۔ ا۔ مٹ) (۱) کچی۔ پیڑھ (۲) پھر جانا۔

زیل - (ن۔ ا۔ مٹ) (۱) بیج کی آواز۔ بچوں کی آواز۔ باریک آواز۔

زین - (ن۔ ا۔ مٹ) (۱) زیب و زینت۔ خوبصورتی۔ سجاوٹ۔

زین حال - (ن۔ ا۔ مٹ) (۱) عورتوں کا ایک فرضی جن۔

زین - (ن۔ ا۔ مٹ) (۱) چار جامہ۔ کاغذی (۲) پالان (۱) مٹ) ایک مضبوط اور موٹا کپڑا۔

زین پولس - (ن۔ ا۔ مٹ) (۱) کپڑا جو زین کے اوپر ڈالتے ہیں۔

زین دھرتا - (ن۔ صفت) (۱) زین کستا۔ زین کھینچنا۔ (۲) محاورہ) گھوڑے کی پیٹھ پر زین باندھنا۔

زین ساز - (ن۔ صفت) (۱) زین بنانے والا۔

زین سازی - (ن۔ ا۔ مٹ) (۱) زین بنانے کا کام یا پیشہ۔

زین سواری - (ن۔ ا۔ مٹ) (۱) گھوڑے پر سوار ہونا۔

زینت - (زی۔ نت) (ن۔ ا۔ مٹ) (۱) زیبائش۔ خوبصورتی۔ سجاوٹ۔

زینت (بخشا) دینا - (ا۔ محاورہ) سمانا۔ سز تین کرنا۔

زینت پہلو - (ن۔ صفت) (۱) یومی۔ مستحق (۲) ہم نشین (۳) بھائی۔

زیورہ (زے۔ وک) ذ۔ ۱۔ ذ (۱) زیب وک کا مخفف۔ زیب دینے والا۔
 (۲) گہنا پاتا (۳) زیب و زینت۔ جمع زیورات۔
 زیور بڑھانا۔ (۱) محاورہ، زیور اُتار ڈالنا۔
 زیور توڑنا۔ (۱) محاورہ، خاندان کی وفات پر زیور ٹکڑے ٹکڑے کر دینا۔
 زیور سے گوندنی کی طرح لدا رہنا۔ (۱) محاورہ، بہت سا زیور
 پہنے رہنا۔

زینت ہونا۔ (۱) محاورہ، سجا۔ سجاوٹ کا موجب ہونا۔
 زین ڈیپٹ۔ (۱) زین۔ ڈیپٹ (ڈاڑ۔ ۱۔ منٹ) یاد گوئی۔
 زینتہ۔ (۱) ذ۔ ۱۔ ذ (۱) زیب و زینت۔
 زینہار۔ (۱) زین۔ ہار (۱) ذ۔ ۱۔ ذ (۱) زیب و زینت۔
 زینہارا از قرین بد زینہار (۱) پناہ بڑے ساتھی سے۔ پناہ
 بڑی محبت سے۔ خدا بچائے۔

ژ

ژ۔ (ژے) (ن۔ ا۔ مٹ) (اُردو کا ستر حواں۔ فارسی کا چودھواں حوف۔ حساب ابجد میں اس کے سات عدد فرض کیے گئے ہیں۔

ژا

(مٹ) (پاریسوں کے پیشوا زرتشت کی مقدس کتاب۔ قدیم ایرانی زبان کا نام۔
ژندگی۔ (ژن۔ ڈ۔ گی) (ن۔ ا۔ مٹ) (پرانہاں۔ لنگلی۔ شکتلی۔ تداست۔
ژندہ۔ (ژن۔ ڈہ) (ن۔ ا۔ مٹ) (ا) گڈڑی۔ چرانا خرقہ۔ بیوند لگا ہوا جامہ (۲) کسٹ۔

ژا ژ۔ (ن۔ ا۔ مذ) (۱) ایک کانٹوں دار جھاڑی کا نام ہے اُونٹ رخت سے کھاتا ہے۔ اُونٹ کٹارا (۲) بیودہ بات۔ بے نامذہ بات۔
ژا ژخا (گو)۔ (ن۔ صفت) بیودہ گو۔ بکواسی۔
ژا ژخالی۔ (ن۔ ا۔ مٹ) بیودہ گوئی۔ بکواس۔
ژالہ۔ (ژا۔ ز) (ن۔ ا۔ مذ) (۱) اول (۲) پالا۔ کبڑ۔
ژالہ باری۔ (ن۔ ا۔ مٹ) (۱) اولوں کی بارش۔ اولے پڑنا۔
ژالہ زدگی۔ (ن۔ صفت) (۱) اولوں کی بارش (۲) اولوں سے پہنچا ہوا نقصان۔

ژو

ژولیدگی۔ (ژو۔ لی۔ ڈ۔ گی) (ن۔ ا۔ مٹ) (۱) اُلھاؤ (۲) پریشانی۔
ژولیدہ۔ (ژو۔ لی۔ ڈہ) (ن۔ صفت) اُلھا ہوا۔ درہم و درہم۔ پریشان۔
ژولیدہ بیان۔ (ن۔ ج۔ صفت) جس کی تحریر و تقریر میں اُلھاؤ ہو۔
ژولیدہ حال۔ (ن۔ ج۔ صفت) پریشان حال خستہ حال۔
ژولیدہ مو۔ (ن۔ صفت) (۱) بھرے ہوئے بال۔ اُلجھے ہوئے بال (۲) بھرے یا اُلجھے ہوئے بالوں والا۔

ژر

ژرف۔ (ن۔ صفت) گہرا۔ مین۔
ژرف نگاہ۔ (ن۔ صفت) گہری نظر والا۔ جو کسی معاملے کی تہ تک پہنچ جائے۔

ژی

ژیایاں۔ (ژی۔ یاں) (ن۔ صفت) غضب ناک۔ خشم ناک۔ خونخاک۔

ژن

ژند۔ (ن۔ ا۔ مذ) (۱) گڈڑی۔ (۲) پھٹا ہوا کپڑا (۳) بزرگ۔ قلندر (۳)

س

س۔ (سین) (ع۔ ۱۔ مذ) اردو کا اٹھا دھواں۔ فارسی کا پندرھواں، عربی کا گیارھواں اور ہندی کا بیسواں حرف۔ حساب الجب میں اس کے ساتھ عدد مقرر ہیں۔ یہ شمس حرف ہے اگر اس سے پہلے "ال" آنے کا تو لام" آواز نہیں دے گا البتہ س کو مشدود کر دے گا جیسے السید۔ ہندی الفاظ کے شروع میں اگر نحو بصورت اور نیک کے معنی دیتا ہے جیسے سدول اور آفریں اگر ان الفاظ کو اسم کیفیت بنا دیتا ہے جیسے کھاس۔ کھاس۔

س-۱

سا۔ (ن) (۱) سال اور آسا کا مخفف مثل مانند جیسا مطابق۔ مشابہ (۲) روگنے والا، کھینچنے والا چکانے والا۔ جیسے ہمیں سا (۳) [اُر] مقدار ظاہر کرنے والا (۴) گویا (۵) حسن کے کلام کے لیے۔

سا۔ (۶) [ا] بہت۔ جید۔ صفات اور صفت کے ساتھ بل کر اسما صفت بناتا ہے جیسے کالا سا۔ بہت سا (۷) ہندی موسیقی کا پہلا نثر۔

سا باطر۔ (ع۔ ۱۔ مٹ) پھت دار راستہ جو درمکانوں کو ملائے پھتی ہوئی گل چھتا۔

ساج۔ (ع۔ ۱۔ مذ) تیز رفتار گھوڑا۔

سابدھان۔ (س۔ ۱۔ ص) (صفت) چوکس۔ مستعد۔ ہوشیار۔ دُور اندیش۔

سابر۔ (س۔ ۱۔ ص) (س۔ ۱۔ مذ) (۱) بارہ سنگا (۲) نقب زنی کا آلہ۔

سابر چٹرا۔ (کیمیائی اصطلاح) بارہ سنگے یا ہرن کی کھال کا چٹرا جو سینڈ یا زرد رنگ کا ہوتا ہے۔

سابری۔ (ع۔ ۱۔ مٹ) گھجروں کی سب سے اچھی قسم (۲) نہایت اعلیٰ قسم کا کپڑا۔

سابع۔ (س۔ ۱۔ ص) (ع۔ ۱۔ ص) جمع : سابعون۔ سابعۃ۔

سابق۔ (س۔ ۱۔ ص) (ع۔ ۱۔ ص) (۱) اگلا پہلا۔ اول۔ اگلے وقت کا (۲) سبق۔

سابقہ والا۔ بڑھا ہوا۔ جمع : سابقون۔ سابقین۔

سابق الزکر۔ (ع۔ ۱۔ ص) (ع۔ ۱۔ ص) جس کا پہلے ذکر کیا جا چکا ہو۔ مذکورہ بالا۔

سابق دستور۔ (ع۔ ۱۔ ص) پہلے کی طرح۔ پرانے دستور یا قاعدے کے مطابق جیسے سابق میں۔ (۱) گزشتہ زمانے میں۔

سابقہ۔ (س۔ ۱۔ ص) (ع۔ ۱۔ ص) (۱) پہلے گزشتہ زمانے میں (۲) پہلی دفعہ۔ قبل ازیں۔

سابقون الاولون۔ (ع۔ ۱۔ مذ) وہ صحابہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لائے۔

سابقہ۔ (س۔ ۱۔ ص) (ع۔ ۱۔ ص) (۱) اگلے زمانے کا (۲) [اُر۔ ۱۔ مذ]

تقریم جان پہچان۔ دوست نہ (۳) واسطہ۔ معاملہ۔

سابقہ پڑنا۔ (۱) محاورہ (۱) کام پڑنا۔ واسطہ پڑنا (۲) لین دین ہونا (۳) واقفیت ہونا۔ جان پہچان ہونا۔

سابقہ دانسا۔ (۱) محاورہ (۱) قرینہ تعلق پیدا کرنا (۲) واقفیت یا جان پہچان کرنا کام پڑنا

سابقین۔ (س۔ ۱۔ ص) (ع۔ ۱۔ ص) (۱) سابق کی جمع۔ گزشتہ زمانے کے لوگ۔

سابل۔ (ع۔ ۱۔ ص) (ع۔ ۱۔ ص) (۱) نقب زنی کا آلہ۔

سابق۔ (س۔ ۱۔ ص) (ع۔ ۱۔ ص) (۱) سابقین یا صاحبون۔

سابوتاژ (تاج)۔ (Sabotage) (س۔ ۱۔ ص) (ع۔ ۱۔ ص) (۱) تاج (۲) تاج (۳) تاج (۴) تاج۔

ساز۔ (ع۔ ۱۔ ص) (ع۔ ۱۔ ص) (۱) ساز (۲) ساز (۳) ساز (۴) ساز۔

سازگار۔ (ع۔ ۱۔ ص) (ع۔ ۱۔ ص) (۱) سازگار (۲) سازگار (۳) سازگار (۴) سازگار۔

سات۔ (ع۔ ۱۔ ص) (ع۔ ۱۔ ص) (۱) سات (۲) سات (۳) سات (۴) سات۔

سات بھائی۔ (ع۔ ۱۔ ص) (ع۔ ۱۔ ص) (۱) سات بھائی (۲) سات بھائی (۳) سات بھائی (۴) سات بھائی۔

سات پارپے کا خلعت۔ (ع۔ ۱۔ ص) (ع۔ ۱۔ ص) (۱) سات پارپے کا خلعت (۲) سات پارپے کا خلعت (۳) سات پارپے کا خلعت (۴) سات پارپے کا خلعت۔

سات پانچ۔ (ع۔ ۱۔ ص) (ع۔ ۱۔ ص) (۱) سات پانچ (۲) سات پانچ (۳) سات پانچ (۴) سات پانچ۔

سات پانچ کرنا۔ (ع۔ ۱۔ ص) (ع۔ ۱۔ ص) (۱) سات پانچ کرنا (۲) سات پانچ کرنا (۳) سات پانچ کرنا (۴) سات پانچ کرنا۔

سات پانچ کی لاشی ایک بجنے کا بوجھ۔ (ع۔ ۱۔ ص) (ع۔ ۱۔ ص) (۱) سات پانچ کی لاشی ایک بجنے کا بوجھ (۲) سات پانچ کی لاشی ایک بجنے کا بوجھ (۳) سات پانچ کی لاشی ایک بجنے کا بوجھ (۴) سات پانچ کی لاشی ایک بجنے کا بوجھ۔

سات پانچ لانا۔ (ع۔ ۱۔ ص) (ع۔ ۱۔ ص) (۱) سات پانچ لانا (۲) سات پانچ لانا (۳) سات پانچ لانا (۴) سات پانچ لانا۔

سات پانچ مل کیمچے کاج۔ (ع۔ ۱۔ ص) (ع۔ ۱۔ ص) (۱) سات پانچ مل کیمچے کاج (۲) سات پانچ مل کیمچے کاج (۳) سات پانچ مل کیمچے کاج (۴) سات پانچ مل کیمچے کاج۔

سات پانچ نہ جانتا۔ (ع۔ ۱۔ ص) (ع۔ ۱۔ ص) (۱) سات پانچ نہ جانتا (۲) سات پانچ نہ جانتا (۳) سات پانچ نہ جانتا (۴) سات پانچ نہ جانتا۔

سات پانچوں میں رکھنا۔ (ع۔ ۱۔ ص) (ع۔ ۱۔ ص) (۱) سات پانچوں میں رکھنا (۲) سات پانچوں میں رکھنا (۳) سات پانچوں میں رکھنا (۴) سات پانچوں میں رکھنا۔

سات پر دے لگنا۔ (ع۔ ۱۔ ص) (ع۔ ۱۔ ص) (۱) سات پر دے لگنا (۲) سات پر دے لگنا (۳) سات پر دے لگنا (۴) سات پر دے لگنا۔

سات پر لٹھیا۔ (ع۔ ۱۔ ص) (ع۔ ۱۔ ص) (۱) سات پر لٹھیا (۲) سات پر لٹھیا (۳) سات پر لٹھیا (۴) سات پر لٹھیا۔

سات پھرے۔ (ع۔ ۱۔ ص) (ع۔ ۱۔ ص) (۱) سات پھرے (۲) سات پھرے (۳) سات پھرے (۴) سات پھرے۔

سات پھرے سے آگ کے گرد گھومتے جاتے ہیں۔ اس سے عقد بندھنا مراد ہوتا ہے۔

سات پھرے۔ (ع۔ ۱۔ ص) (ع۔ ۱۔ ص) (۱) سات پھرے (۲) سات پھرے (۳) سات پھرے (۴) سات پھرے۔

سات پھولوں کی سیاہی سے منہ کالا کرنا۔ (ع۔ ۱۔ ص) (ع۔ ۱۔ ص) (۱) سات پھولوں کی سیاہی سے منہ کالا کرنا (۲) سات پھولوں کی سیاہی سے منہ کالا کرنا (۳) سات پھولوں کی سیاہی سے منہ کالا کرنا (۴) سات پھولوں کی سیاہی سے منہ کالا کرنا۔

سات دریا درمیان۔ (ع۔ ۱۔ ص) (ع۔ ۱۔ ص) (۱) سات دریا درمیان (۲) سات دریا درمیان (۳) سات دریا درمیان (۴) سات دریا درمیان۔

سات دھار ہو کر نکلنا۔ (ع۔ ۱۔ ص) (ع۔ ۱۔ ص) (۱) سات دھار ہو کر نکلنا (۲) سات دھار ہو کر نکلنا (۳) سات دھار ہو کر نکلنا (۴) سات دھار ہو کر نکلنا۔

نے کے ذریعے نکل جانا (۷) کی یا بیباک ٹیوٹ ٹیوٹ کرنا۔
سات روپیہ اور یہ نمونہ۔ (۱) شل (چھوٹی معیشت کے آدمی کا اپنی بڑائی کی ڈینگیں مارنا۔

سات سمندر۔ (۱-۵) مذ دنیا کے سارے سمندر۔
سات سمندر پار۔ (۱-۵) صفت بہت دور۔ دور دورا زفا صلے پر۔
سات سنگار۔ (۱-۵) مذ (۱) ہندی لگانا (۲) سرسرد لگانا (۳) پان پان جانا (۴) ہونٹوں پرستی کی دھڑی جانا (۵) بال سنوارنا (۶) افشال چھٹنا یا چوڑیاں پہننا (۷) بڑو رہننا (سول سنگار مشہور ہیں)۔

سات سو چوہے کھا کے پتی ج کھچلی۔ (۱) شل بہت سے بڑے کام کر کے نیک کام کا ارادہ کرنا۔
سات سپہاگونوں کا ٹانہ لگوانا۔ سات سپہاگونوں کو کھلانا۔ ایسی سات عورتوں سے جن کے خاندان زندہ ہوں۔ نیک شگون کے لیے شادی کا جوڑا قطع کرانا یا سنت کا کھانا کھلانا۔

سات ہسیلیوں کا جھکا۔ (۱-۵) مذ پر دین۔ جھرتیا۔
سات قرآن درمیان۔ (۱) ایک قسم کی قسم۔ خدا نہ کرے۔
سات قلم۔ (۱-۵) مذ سات مشہور خط۔ نستعلیق۔ نسخ۔ علق۔ رحمان۔ ثلث۔ شکستہ۔ اور طغراء۔

سات ماموٹوں کا بھانجا۔ سارے کچھے کا لاڈلا بچہ۔
سات ماموٹوں کا بھانجا جھوک جھوک پکارے۔ (۱) شل اس شخص کے بارے میں کہتے ہیں جو بہت سے رشتہ دار ہونے پر بھی محتاج اور بیس سب (۲) جو بادجو مددگاروں کی مدد کے ناشکر گزار ہو۔

ساتا رُوہیں۔ (سا۔ تا۔ رُو۔ جین)۔ (۱-۵) مذ سات بیٹریے جو اکٹھے رہیں (۲) کتا جو چھ بیٹریوں کے ساتھ رہے (۳) چند آدمیوں کا گروہ (۴) بڑا گنبد (۵) چند شریر آدمی جو کسی کو تنگ کرنے کے لیے اکٹھے ہو جائیں۔
ساتر۔ (سا۔ تر)۔ (۱) صفت چھپانے والا۔ پردہ ڈالنے والا۔ جمع، ساترین
ساترا۔ (سات۔ را)۔ (۱) صفت لفظ۔ مدت۔ ساعت۔
ساتنگین۔ (سات۔ گین)۔ (۱) مذ شرب کا بڑا پیالہ۔
ساتول۔ (سا۔ تول)۔ (۱) صفت پرورے سات۔
ساتوال۔ (ساتول۔ سات)۔ (۱) صفت ساتوں۔ (۲) صفت ساتوں سے نسبت رکھنے والا۔

ساتویں آسمان پر مزاج ہونا۔ (۱) محاورہ بہت غرور کرنا۔ بڑا گھڑ کرنا۔
ساتھ۔ (۱-۵) مذ (۱) ہمراہ۔ شریک۔ ساتھ میں (۲) ہمراہی۔ رفاقت۔ شرکت
ساتھا (۳) میل ملاپ ربط منط (۴) ایک جگہ۔ ایک ہی وقت۔
ساتھ چھوٹنا۔ (۱) محاورہ (۱) پھوٹنا۔ جدا ہونا (۲) لاپ نہ رہنا۔ نا اتفاقی ہوجانا
ساتھ چھوڑنا۔ (۱) محاورہ رفاقت سے منہ موڑ لینا۔ تعلق ختم کرنا۔
ساتھ دینا۔ (۱) محاورہ رفاقت کرنا۔ نباہنا۔ حمایت کرنا۔ مدد دینا۔ دکھ لگنے میں شریک رہنا۔

ساتھ رہنا۔ (۱) محاورہ (۱) ہمراہ رہنا (۲) ایک گھر میں یا ایک جگہ رہنا۔
(۳) عورت کا مرد سے آشنا رکھنا۔
ساتھ سو پیٹ کا دکھ ہونا۔ (۱) شل عورت اور مرد اکٹھے سوئیں تو عورت حاملہ

ہو رہی جاتی ہے اور حمل کی تکلیف اٹھانی ہی پڑتی ہے۔
ساتھ سو کر مڑ چھٹانا۔ ساتھ سونا اور مڑ چھٹانا۔ (۱) شل (۱) بے تکلفی ہونے ہونے تک نہ کرنا (۲) بات مانتے ہوئے بھی انکار کرنا۔ انکار کرتے کرتے اقرار کرتے جانا۔
ساتھ سونا۔ (۱) کسی کے ساتھ ایک چار پائی پر سونا (۲) ہم بستر ہونا۔
ساتھ سوئی بات کھوٹی۔ (۱) محاورہ جب عورت مرد کے ساتھ سو جائے اور جمان کر لے تو اس کو عزت کم ہو جاتی ہے۔

ساتھ کا کھیلنا۔ ساتھ کی کھیلی۔ (۱) پہلا۔ مذ۔ دوسرا۔ امٹ۔ بچپن کا دست لگنا۔ ساتھیار۔ بال بچن کی کھیلی۔
ساتھ کے لیے بھات چھوڑا جاتا ہے۔ (۱) شل اچھے رفیق کے لیے نقصان بھی برداشت کیا جاتا ہے۔

ساتھ گھٹنا۔ (۱) محاورہ زبردستی شریک کرنا۔ جبراً ساتھ لینا۔
ساتھ لگا پھرنا۔ (۱) محاورہ (۱) بچھے بچھے پھرنا۔ پیچھا نہ چھوڑنا۔
ساتھ لینا۔ (۱) محاورہ ہمراہ لینا۔ سگ لینا۔
ساتھ نبھنا۔ (۱) محاورہ نباہ ہونا۔

ساتھ والا۔ (۱) صفت (ساتھی) ہم راہی۔ رفیق۔
ساتھن۔ (سا۔ تھن)۔ (۱) صفت (ساتھ والی) ساتھ کی عورت۔
ساتھی۔ (سا۔ تھی)۔ (۱-۵) مذ (۱) رفیق۔ ہمراہی (۲) مددگار۔ ساتھی۔

ساتھا۔ (سا۔ ٹا)۔ (۱-۵) مذ (۱) عوض مبادلہ (۲) ہنڈی کا باہمی لین دین۔
ساتے کی سگائی اور بیباک جو روپے کا احسان کیا۔ (۱) شل (۱) متا بلے یا برابر کی شادی کرانے اور سو دہرود پیہ فرض دینے کا کوئی احسان نہیں ہوتا۔
ساتن۔ (Satin) (سا۔ تن)۔ (۱) مذ ایک قسم کا دیزیز بھر گیا۔
ریشمی پٹا۔ اٹلس۔

ساتھ۔ (۱-۵) صفت (ساتھ جمع ایک)۔
ساتھ ساس۔ نند ہوں سو۔ مال کی جو روزانہ سول ہو۔ (۱) شل (۱) ساس
سایس اور سوندیہ ہوں تو جی ایک مال کی برابر نہیں کر سکتیں۔
ساتھ گاؤں بگڑی چڑکھی۔ (۱) شل اس کو تھپتھپتے پر ہوتے ہیں جب بہت معمولی چیز یا شخص کے ہاتھوں بہت بڑا نقصان ہو گیا ہو۔

ساتھا۔ (سا۔ ٹھا)۔ (۱-۵) مذ ساتھ برس کی عمر کا آدمی۔
ساتھا پانٹھا۔ (۱) جوان لاٹھی (۲) ایسا آدمی جس کے ساتھ برس کی عمر میں بھی قوی اچھے ہوں۔

ساتھا پانٹھا۔ بیسی جھینسی۔ (۱) شل مرد ساتھ برس کی عمر تک قوی رہتا ہے لیکن عورت میں ہی برس کی عمر سے ڈھلنے لگتی ہے۔
ساتھی۔ (سا۔ تھی)۔ (۱) صفت (ساتھی) ایک قسم کا سرنج چاول جس کی فصل ساتھ دن میں تیار ہو جاتی ہے۔

ساج۔ (سا۔ ج)۔ (۱) سال کا مہرب۔ (۱) مذ (۱) سال کی مکڑی (۲) تلواریں وغیرہ صیقل کرنے کا پتھر (۳) سجاد (۴) صفت (۵) ق۔

ساجد۔ (سا۔ جد)۔ (۱) صفت (۱) سجدہ کرنے والا۔ سر جھکانے والا۔
ساجدہ۔ (سا۔ جد)۔ (۱) صفت (۱) سجدہ کرنے والی سر جھکانے والی۔
ساجن (سجین)۔ (سا۔ جن۔ سج۔ جین)۔ (۱-۵) مذ (۱) خاندان۔ شوہر (۲) معشوق۔ دل پر (۳) سردار۔ حاکم۔

بجوت - بھولا بھالا (۹) بے ہنرے سلیقہ۔ چھوٹر (۱۰) صاف دل۔ بے ریا (۱۱) خالی
سادہ پیرکار - (ف۔ صفت) جو بظاہر بھولا بھالا مگر فی الواقع چالاک ہو۔
(کنایتاً) شوخ و مینار مشوق۔
سادہ پن - (ف۔ ہ۔ ا۔ مذ) سادگی۔ بھولا پن۔
سادہ دل - (ف۔ صفت) صاف دل۔ بھولا۔
سادہ دلی - (ف۔ ا۔ مٹ) (۱) بے دقتی (۲) بھولا پن (۳) صاف دل۔
سادہ رُخ - سادہ رُو - سادہ عذار - (ف۔ صفت) بے ریش جوان پیشتر
مشوق کے لیے مستعمل ہے۔
سادہ طور - (ف۔ صفت) سادہ وضع۔ بغیر ٹیپ ٹاپ۔
سادہ کار - (ف۔ ا۔ مذ) نفیس کام بنانے والا (۲) کلام میں
سے گریز کرنے والا۔
سادہ کاری - (ف۔ ا۔ مٹ) سادہ کار کا پیشہ۔ سناری۔ زرگری۔
سادہ کاغذ - (ف۔ ا۔ مذ) (۱) کورا کاغذ (۲) بغیر شامپ کا کاغذ۔
سادہ لوح - (ف۔ صفت) (۱) بے دقتی۔ نادان۔ احمق۔ بے شعور (۲)
بھولا بھالا۔ سیدھا سادہ۔
سادہ لوحی - (ف۔ ا۔ مٹ) (۱) بے دقتی۔ نادانی (۲) سادگی۔ بھولا پن۔
سادہ مزاج - (ف۔ صفت) جس کے مزاج میں بناوٹ یا تکلف نہ ہو۔
سادہ مزاجی - (ف۔ ا۔ مٹ) صاف دلی۔ بے تکلفی۔ سادگی۔
سادہ وضع - (ف۔ صفت) سادہ طور۔ وہ جس کی وضع میں تکلف نہ ہو۔
سادہ ہنڈی - (۱۔ مٹ) (اصطلاح علم العیشت) سادہ بل۔
سادھ - (۲۔ صفت) (۱) نیک۔ پارسا۔ پرہیزگار (۲) جوگی۔ فقیر (۳) خواہش۔
(۴) تکمیل۔ کمال (۵) بجا آوری۔ عمل درآمد۔
سادھ جانا - (۱۔ محاورہ) سانس روک لینا۔
سادھارن - (سا۔ دعا۔ زن) (س۔ صفت) (۱) معمولی۔ رسمی۔ ایسا ویسا (۲)
جو روزمرہ ہوتا ہو۔ جو سب پر لاگو ہو۔ عمومی۔ عام بات (۳) مشہور معروف
(۴) برابر کا۔ مقابل۔ نظیر (۵) آسانی سے بلا دقت (۶) آہستہ بہت آہستہ
ہولے سے۔ نرمی سے (۷) اتفاقہ۔ اتفاق سے
سادھن - (سا۔ دھن) (س۔ ا۔ مذ) (۱) تدبیر۔ علاج۔ چارہ کار (۲) عمل درآمد
کارروائی (۳) استعمال۔ درد۔ مشق (۴) عادت۔ معمول (۵) عبادت۔
ریاضت (۶) اصلاح۔ درستی (۷) نیاہ۔ پورا (۸) ثبوت کر کے دکھانا (۹)
ذریعہ معاش۔ وسیلہ (۱۰) سامانِ مسالہ۔
سادھنا - (سادھ۔ نا) (دھ۔ مصدر) (۱) عادت ڈالنا (۲) مانوس کرنا (۳) توان
جاینتا (۴) برقرار رکھنا۔ روکنا۔ تھامنا (۵) اصلاح کرنا۔ ٹھیک ٹھاک کرنا
(۶) اختیار کرنا (۷) پورا کرنا (۸) ثابت کرنا (۹) بنانا (۱۰) تیراغازی کرنا۔
(۱۱) سکھانا۔ تربیت دینا (۱۲) ارادہ کرنا۔
سادھنی - (سا۔ دھ۔ نی) (دھ۔ ا۔ مٹ) (۱) سادھنے کا وہ آدم جو سماروں اور
بڑھئیوں کے پاس ہوتا ہے۔ گنیا۔ گونیا (۲) سادھو کی بیوی۔ نیک عورت۔
سادھو - (سا۔ دھو) (س۔ صفت) (۱) جوگی درویش (۲) پارسا۔ پرہیزگار۔
وہنڈار (۳) (۱) مذ معصوم۔ نیک۔ بھلا مانس۔
سادھو پنچہ - (ہ۔ صفت) (کنایتاً) مکار۔ عیار۔ دغا باز۔ وہ انسان جو

ساجن ہم تو ایک ہیں دیکھت کے ہیں دو (۱۔ مٹ) (۲) پیار سے ہم تم
مُن کو مُن سے قول لے دو من کدی نہ ہو (۱) اصل میں ایک ہیں۔ اگرچہ
دو دکھائی دیتے ہیں جیسے من کو من سے تو لا جائے تو وہ دو من بھی نہیں
ہوتا ایک من ہی ہوتا ہے (۲) من طبی دل۔ ایک وزن۔
ساجنا - (سا۔ ج۔ نا) (دھ۔ مصدر) (۱) جانا۔ زیب دینا۔ ٹھیک کرنا (۲) موزوں ہونا۔
ساجھا - (سا۔ جھا) (ہ۔ ا۔ مذ) کسی کام میں حصہ داری یا شراکت۔
ساجھا بھلا نہ باپ کا اور تاؤ بھلا نہ تاپ کا۔ (مٹ) شراکت کسی
کے ساتھ نہیں کرنی چاہئے خواہ وہ اپنا باپ ہی کیوں نہ ہو اور بھار کی گری
اچھی نہیں ہوتی۔ ساجھے کی بڑائی ہے۔
ساجھے کا کام اتار سے جام - (۱۔ محاورہ) شراکت کے کام میں چڑھی اتر
جاتی ہے یعنی سخت نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔
ساجھے کی ہنڈیا چورا ہے پر چھوٹی ہے۔ (۱) مٹ) شراکت کے کاڑباز
میں جھگڑا ضرور ہوتا ہے۔
ساجھی - (سا۔ جھی) (دھ۔ ا۔ مذ) حصہ دار۔ شریک۔ چتی دار۔
ساجھی ساجھی مل گئے، جھوٹے پڑے سلیقہ۔ (۲) مٹ) فریقین آپس
میں ایک ہو گئے بیچ میں پڑنے والوں کو سخت اٹھانی پڑی۔
ساجھن - (سا۔ جھن) (ت۔ ا۔ مٹ) برات سے ایک روز پیسے کی رسم جس میں دھکا
کے پیالے سے دھن کے لیے مٹھی۔ نقل۔ مہری۔ میروہ کی ٹھیلیاں۔ سہانگ پڑا
مہندی۔ تیل پھیلے۔ جوڑا۔ مہر اور پان کے بیڑے لے کر جاتے ہیں۔ رسم
تھا۔ مہندی۔
ساجھت - (سا۔ جھت) (ت۔ ا۔ مذ) آنگن۔ احاطہ۔ میدان۔
ساجز - (سا۔ جز) (ت۔ ا۔ مذ) جادوگر۔ جادو کرنے والا۔ انوں گر۔
ساجزانہ - (سا۔ ج۔ نا۔ مذ) (ف۔ صفت) (۱) جادوگری کی مانند (۲) جادو کا اثر
رکھنے والا (۳) سحر سے مشوب۔
ساجزہ - (سا۔ ج۔ زہ) (ت۔ ا۔ مٹ) جادوگری۔ جادو ٹونا جاننے والی۔
ساجزی - (سا۔ ج۔ زی) (ت۔ ا۔ مٹ) جادوگری۔ جادو ٹونا۔
ساجل - (سا۔ جمل) (ت۔ ا۔ مذ) سمندر یا دریا کا کنارہ۔ جمع۔ ساحل۔
ساجت - (ف۔ ا۔ مٹ) (۱) بناوٹ۔ گھڑت۔ ترکیب۔ وضع (۲) کوجیلہ۔ فریب
ساجتہ - (سا۔ ج۔ تہ) (ف۔ صفت) (۱) گھڑا ہوا۔ مصنوعی (۲) جھوٹا۔ نقل جیل
(۳) بنایا ہوا۔ تیار کیا ہوا۔
ساجتہ پردا ساجتہ - (۱) بنایا ہوا سنوارا ہوا۔ آراستہ کیا ہوا (۲) کر توت۔
سادات - (سا۔ ات) (ت۔ ا۔ مذ) وہ قوم جو حضرت علیؑ کی اولاد اور حضرت
فاطمہؑ کے بطن سے ہے۔ قوم سید۔
سادس - (سا۔ وس) (ت۔ صفت) چھٹا۔
سادگی - (سا۔ دگی) (ف۔ ا۔ مٹ) (۱) صفائی (۲) وہ حالت جو بغیر بناوٹ
نمائش یا تکلف کے ہو (۳) راست بازی (۴) بھولا پن۔ سیدھا پن۔
سادنا - (ت۔ صفت) حاصل کرنا۔ انجام دینا۔
سادہ - (سا۔ دہ) (ف۔ صفت) (۱) گورا بغیر کھامات (۲) خالص (۳) بے ریش (چڑ)
(۴) بغیر تکراری کا گوشت کا سانس (۵) جس میں زینائش اور آرائش نہ ہو۔
(۶) جس پر گونے کناری کا کام نہ ہو یا نقش و نگار نہ بنے ہوئے ہوں (۷)

سارے شہر میں اونٹ بدنام۔ (مثل) جو شخص بدنام ہو چکا ہو ہر بڑی بات میں اس کا نام لیا جاتا ہے۔
 سارٹی فلٹ۔ سرٹی فلٹ۔ (Certificate) (سارٹی فلٹ) (سرٹی۔ ف۔ کٹ) (ڈانگ۔ ا۔ مذ) (۱) سند (۲) خوشنودی کا پردانہ یا چٹھی (۳) تحریری تصدیق۔

سارجنٹ۔ (Sergeant) (سار۔ جنٹ) (ڈانگ۔ ا۔ مذ) (۱) فوج کا حوالدار۔ (۲) داروغہ۔ پولیس ناظر۔ تھانے دار۔
 سارجنٹ میجر۔ (Sergeant Major) ایک فوجی عہدہ دار۔
 سارس۔ (سا۔ رس) (و۔ ا۔ مذ) ایک سفید رنگ کی لہنی ٹانگوں والا آبی پرندہ جو پانی کے کنارے پر پھیلیاں پکڑ کر کھاتا ہے۔ کلنگ۔ قنقن۔ تاز۔
 سارس کی جوڑی ایک اندھا ایک کوڑی۔ (ا۔ مثل) دونوں بے کار۔
 دونوں نکلے۔

سارس کی سی جوڑی۔ (ا۔ مثل) پتے دوست جو ہر وقت اور ہر جگہ ساتھ رہتی ہیں۔
 سارقی۔ (سا۔ رقی) (ع۔ ا۔ مذ) چود۔ چرانے والا۔ جمع، سارقین۔
 سارنگ۔ (سا۔ رنگ) (و۔ ا۔ مذ) (۱) دھبے کی ایک دانگی (۲) شہد کی بڑی کھٹی (۳) مور (۴) ایک قسم کا سانپ (۵) بادل (۶) مور کی جھنجھار (۷) لاشی (۸) شیر (۹) طرح طرح کے رنگ (۱۰) دھنگ (۱۱) بھونرا۔
 سارنگی۔ (سا۔ رگی) (کی) فون ٹنڈ۔ (و۔ ا۔ مذ) ایک قسم کا ساز جس میں تار لگے ہوتے ہیں۔

سارنگیا۔ (سا۔ رگی۔ گ۔ یا) (و۔ صف) سارنگی بجانے والا۔
 سارنی۔ (ق۔ ا۔ مذ) (مث) سانڈنی۔
 سارو۔ (ق۔ ا۔ مذ) انجام دینے والا۔ کرنے والا۔
 ساری۔ (سا۔ ری) (ع۔ صف) اثر کرنے والا۔ سرایت کرنے والا۔
 ساری۔ (سا۔ ری) (و۔ صف) سارا کا مونٹ۔ کل۔ تمام۔ سب۔ پوری۔
 ساری خدائی۔ (ا۔ صف) کل غلغولت۔
 ساری خدائی اک طرف جو رو کا بھائی اک طرف۔ (ا۔ مثل) زن سرید کے بارے میں کہا جاتا ہے۔
 ساری خدائی اک طرف فضل الہی اک طرف۔ (ا۔ مثل) خدا مہربان ہو تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔

ساری خدائی کا جھوٹا۔ (ا۔ صف) بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا۔ دنیا بھر کا لیا ساری خدائی کا کام۔ (ا۔ مذ) بہت زیادہ کام۔ کام کی کثرت۔
 ساری خدائی کی بائیں آنا۔ (ا۔ محاورہ) ہر کام کا شور باسلیقہ ہونا۔ ہرق طرف مولا ہونا۔
 ساری دیگ میں ایک ہی چاول (ٹھوٹے) دیکھتے ہیں۔ (مثل) جزو سے کل کا حال معلوم ہو جاتا ہے۔
 ساری رات پیسا اور چینی بھرا اٹھایا۔ (مثل) محنت مشقت بہت کی مگر نائد بہت کم ہوا۔

ساری رات ممبائی ایک بچہ بمبائی۔ (مثل) محنت زیادہ کی مگر نائد کم ہوا۔
 ساری رات زلیخا پڑھی اور نہ معلوم ہوا کہ زلیخا عورت تھی یا مرد۔ (مثل) سب کچھ سمجھ دیا پھر بھی مطلب نہ سمجھے (۲) سارا حال سننے کے بعد بھی کچھ پہلے نہ پڑا۔

سادھوں کا بھیس بدل کر گوں کو دھوکہ دے۔
 سادھو کو کیا سواد سے گڑ نہیں بتا شے ہی ہسی۔ (ا۔ مثل) کسی شخص کو اگر ایک چیز نہ دے تو وہ اس کے بدلے میں بہتر چیز مانگے۔ اس پر طنز کہا جاتا ہے۔
 سادھو ہو کر دیوے بنتا۔ اس کو جانو پیٹ کا گنا۔ (ا۔ مثل) جو سادھو ہو کر دھوکہ دے وہ اصل میں لاپلائی اور صرف پیٹ کا بندہ ہے۔

سادی۔ (سا۔ دی) (ڈر۔ صف) (۱) سادہ کا ٹرنٹ (۲) پینٹنگ کی وہ ڈور جس پر مٹھا نہ کیا گیا ہو (۳) صاف کوری جس پر کوئی تحریر یا نقش نہ ہو (۴) بھولی سیدی صاف دل (۵) بے وقوف۔ نادان (۶) بے سلیقہ۔ چھوٹے
 ساذج۔ (ع۔ صف) سادہ کا معرب (ا۔ مثل) تیز پات۔
 سار۔ (ع۔ صف) (۱) مثل، مانند جیسے خاکسار (۲) جگہ (۳) جگہ کثرت جیسے کوہسار (۴) سر۔ چوٹی (۵) اونٹ۔

سار بان۔ اونٹ چلانے والا۔ سانڈنی سوار۔ شتر بان۔
 سار۔ (س۔ ا۔ مذ) (۱) کتبہ باب۔ جو ہر عطر۔ مغز (۲) قدر قیمت۔ منزلت۔ مقام۔ مرتبہ (۳) طاقت۔ زور۔ قوت (۴) اعتبار۔ ساکھ (۵) پانسہ (۶) چوسکر کی کوڑیاں (۷) بساط شرطیج یا تختہ نرد (۸) عرق۔ شیرہ۔ رس (۹) کھاد (۱۰) لوب (۱۱) سوار (ق) (۱۲) تنکا (ق)۔

سار پرانی پیڑ کی کیا جھانے انجان۔ (ا۔ مثل) ناواقف آدمی کسی کی تکلیف کی حقیقت نہیں جانتا۔

سار جانا۔ (ا۔ محاورہ) (۱) تدرک۔ عزت کرنا۔ حقیقت جانا (۲) کیفیت یا حالت معلوم کرنا۔

سارا۔ (ق۔ صف) (۱) خالص (۲) بہترین (۳) بے میل (۴) خوشبودار۔
 سارا۔ (سا۔ را) (و۔ صف) (۱) کل۔ تمام۔ سب۔ پورے کا پورا۔

سارا پیرا۔ (ا۔ صف) کل۔ پورا۔ تمام۔
 سارا دھن جاتا دیکھے تو آدھا دیکھے بانٹ۔ (ا۔ مثل) اگر سالانہ دو ہاتھ سے نکل رہا ہو تو آدھا دے کر باقی آدھا ہی بچا لینا چاہیے۔
 سارا کھیل تقدیر کا ہے۔ (ا۔ مثل) تقدیر کا کھلا پورا ہو کر رہتا ہے۔
 سارا گاؤں جل گیا۔ کالے میٹھا پانی دے۔ (ا۔ مثل) سب کچھ برباد ہو گیا پھر بھی قبیل کی متا باقی ہے۔

سارا کھ جھل گیا تب چوڑیاں پوچھیں۔ (ا۔ مثل) ایسے موقع پر بولتے ہیں جب کوئی شخص نام و نود کی خواہش میں اپنا سب کچھ گنا دے تب کہیں دینا اس کی طرف متوجہ ہو۔

سارا کھر مٹر پراٹھا لینا۔ (ا۔ محاورہ) بہت غل جمانا۔ حد سے زیادہ شوکرنا سارے بدن میں زبان ہی حلال ہے۔ (مثل) (۱) زبان پر اعتبار کا دار و مدار ہوتا ہے (۲) قول نباہنا چاہیے۔

سارے بنیوں کی ایک ممت۔ (مثل) سب کجوس ایک جیسے ہوتے ہیں۔
 سارے جہان کا تھوٹو گنا۔ (ا۔ محاورہ) ہر ایک کا یا سب کا کسی کو بڑا بھلا کرنا۔
 سارے جہان کا چٹھا ہوا۔ (ا۔ محاورہ) پکا بد معاش۔ ایک لچا۔ بڑا شہدا۔ بنات۔ بنیتر۔

سارے دن آدنی آدنی رات کو پرچا پونی۔ (ا۔ مثل) کام کا وقت گنوا کر بے وقت کام کرنا۔

ساری عمر بھاڑی جھونکا۔ (اشل) عمر بھر فضول کام کرتے رہے۔
 ساری عمر کاٹھ میں رہے۔ چلتے وقت پاؤں سے گئے۔ (اشل) جن
 میسٹروں میں گرفتار تھے ان سے چھوٹے تو ان سے بھی بڑی آفت ٹوٹی۔
 ساڑھستی۔ (ساڑھ۔ س۔ تی) (۱۔ ۵) مذ) زمل کا بارھویں۔ پہلے اور دوسرے
 گھر میں متواتر دو دو ساڑھے سات برس کا ہوتا ہے اور نہایت منحوس
 خیال کیا جاتا ہے۔ نحوست۔ ادا بار۔
 ساڑھستی آنا۔ (۵۔ محاورہ) بڑے دن آنا۔ بد فیسی کا دور ہونا۔
 ساڑھو۔ (سا۔ جھو) (۵۔ ۱) مذ) سالی کا خاندن۔ ہم زلف۔
 ساڑھی۔ (سا۔ ٹھی) (۵۔ ۱) مٹ) (ساڑھی کا مخفف) فصل ریح جس میں گہریں
 جو۔ چنا وغیرہ پیدا ہوتا ہے۔
 ساڑھے۔ (سا۔ ڈھے) (۵۔ ۱) صفت) آدھا۔ نصف۔ ایک اور دو کے اعداد
 کے علاوہ باقی تمام اعداد کے ساتھ سابقے کی شکل میں استعمال ہوتا ہے۔
 ساڑھے چار آنے۔ ساڑھے چھ گز۔
 ساڑھی۔ (سا۔ ٹھی) (۵۔ ۱) مٹ) (سا۔ ٹھی) (۵۔ ۱) مٹ) ایک قسم کی لمبی مٹوٹی
 جسے عورتیں آدمی باندھتی اور آدمی اور مٹوٹی میں۔
 ساز۔ (ن۔ ۱) مذ) (۱) سامان۔ اسباب (۲) باجا (۳) جنگ کے ہتھیار (۴)
 گھوڑے کا زور (۵) وہ سامان جو گھوڑے کو گاڑی کے ساتھ جوڑنے کے
 لیے درکار ہوتا ہے (۶) میل جول۔ موافقت۔ ربط (۷) تیاری۔ سرانجام
 (۸) (اُر) ناپچنے کا سامان (۹) (مرکبات میں) بنانے والا کرنے والا یا
 بنایا ہوا۔ کیا ہوا۔ جیسے کار ساز۔ مٹع ساز (۱۰) قابل (ق)۔
 ساز باز۔ (ن۔ ۱) مذ) سازش۔ کسی کے خلاف گتھ جوڑ۔
 ساز باز کرنا۔ (۱) محاورہ) کسی کے خلاف گتھ جوڑ کرنا۔ سازش کرنا۔
 ساز چھڑنا۔ (۱) محاورہ) ساز بجانا شروع کرنا۔
 ساز سفر۔ (ن۔ ۱) مذ) سفر کا سامان۔ زاد واہ۔
 ساز کا پردہ۔ (۱) مذ) ساز کی مجموعی ترکیب کا کوئی بڑا جوڑتین آواز دیتا ہے۔
 ساز (لانا) ملنا۔ (۱) محاورہ) ساز کو راگ کے موافق کرنا۔ راگ کے موافق کرنا۔
 ساز و برگ۔ ساز و سامان۔ (ن۔ ۱) مذ) (۱) اسباب (۲) درست ترتیب
 (۳) تیاری (۴) ضروریات۔
 ساز و براق۔ (ن۔ ۱) مذ) (۱) سامان جنگ (۲) مال اسباب۔
 سازش۔ (سا۔ زش) (ن۔ ۱) مٹ) (۱) کسی کی مخالفت کے لیے باہمی اتفاق
 (۲) خلاف قانون مال میل۔
 سازشی۔ (سا۔ زشی) (ن۔ ۱) صفت) موافق۔ مناسب۔ ممدوں۔ لائق۔
 سازگار۔ (سا۔ زگار) (ن۔ ۱) صفت) موافق۔ مناسب۔ ممدوں۔ لائق۔
 سازگاری۔ (سا۔ زگاری) (ن۔ ۱) مٹ) (۱) موافقت۔ موزونیت۔ بناہ۔
 سازنا۔ (ن۔ ۱) مٹ) (۱) بنانا۔
 سازندہ۔ (سا۔ زندہ) (ن۔ ۱) مذ) ساز بجانے والا۔ جمع سازندگان۔
 ساس۔ (۵۔ ۱) مٹ) (۱) بیوی یا شوہر کی ماں۔ خوش دامن۔
 ساس بیوی ہونی لڑائی۔ کرے پڑوسن کا تھپا پانی۔ (مثل) کسی کے
 جھگڑے میں خزا، خزاہ دخل دینا۔
 ساس چھوٹی بیوی بڑی۔ (مثل) دال بولتے ہیں جہاں چھوٹے بڑوں کے

کان کرتے ہوں۔
 ساس ری ساس مجھے پیٹ کا (دکھ) دھندا۔ (مثل) تمام دن کھانے
 پینے والے شخص پر طنز۔
 ساس سے بیرو پڑوسن سے نانا۔ (۱) مثل) بے وقت عورت کے متعلق
 کہا جاتا ہے جو اپنوں سے تو لڑائی جھگڑا کر کے اور بیرونوں سے میل ملاپ۔
 ساس کا پوت۔ خاندن۔ شوہر۔ خصم۔
 ساس کوٹھے بیو چھوڑے۔ (مثل) ساس کے بستے ہی بیو آزادی اختیار
 کر لیتی ہے۔
 ساس کوٹھے پر کی گھاس۔ (مثل) بیہوش اپنی ساسوں کو خاطر میں نہیں لاتی۔
 ساس گئی گاؤں بہو بکے میں کیا کیا کھاؤں۔ (مثل) نکاحی ہٹنے کے بعد
 ہاتھ مارنے کا موقع خوب ملتا ہے۔
 ساس لنگا لنگا بیو بکا بکا۔ (مثل) ساس جو کچھ چھپ کر کرتی ہے۔ بہو
 کھلم کھلا کرتی ہے۔
 ساس مرگئی اپنی ارواح تو سنبے میں (چھوڑ) بٹھا گئی۔ (مثل) اس موقع پر کسی
 جاتی ہے جب ساس کے انتقال کے بعد بھی بہو اس کا رعب قائم رہے۔
 ساس نہ زندگی آپ ہی آمدنی۔ (مثل) ساس ہے نہ نند۔ بہو
 آزاد ہے۔
 ساس۔ (Sauce) (۱) مٹ) (۱) شوربا (۲) پٹنی۔
 ساس پان۔ (Saucepan) کڑیچا۔ چھوٹی کڑیچا جس میں دستہ
 لگا ہوتا ہے (بیچ محفوظ ساس پین)۔
 ساسنی۔ (سا۔ سانی) (ن۔ ۱) صفت) قدیم شاہان ایران کا ایک خاندان جو
 سامان بن بہمن کی اولاد سے تھا۔
 ساسرا۔ (سا۔ سس۔ را) (۵۔ ۱) مذ) سسرال۔
 ساسن لیٹ (سا۔ سز لیٹ)۔ (سا۔ سز لیٹ) (سا۔ سس۔ لیٹ) (۱) مٹ) (۱) ایک قسم کا
 عمدہ نفیس ریشی کپڑا جو مختلف رنگوں کا ہوتا ہے۔ سارس نیٹ (Sarsenet) کا بڑا بڑا
 ساطیح۔ (سا۔ طیح) (ن۔ ۱) صفت) (۱) اونچا۔ بلند (۲) چمکتا ہوا۔ جمع، ساوٹح۔
 ساطور۔ (سا۔ طور) (ن۔ ۱) مذ) (۱) بڑا چھرا (۲) خنجر۔
 ساعت۔ (سا۔ عت) (ن۔ ۱) مٹ) (۱) گھڑی۔ لمحہ۔ لحظہ۔ میل۔ منٹ (۲)
 ڈھائی گھڑی۔ گھنٹہ (۳) وقت (۴) وقت بتانے والی گھڑی (۵) معتین وقت
 جمع، ساعات۔
 ساعت ٹگنا۔ (۱) محاورہ) مقررہ وقت یا مورت کی گھڑی ملنا۔
 ساعت دیکھنا۔ (۱) محاورہ) کوئی کام شروع کرنے کے لیے اچھا یا بُرا
 وقت دیکھنا۔
 ساعت سفید۔ (ن۔ ۱) صفت) نیک گھڑی۔ مبارک وقت۔
 ساعت۔ (سا۔ عت) (ن۔ ۱) مذ) مٹ) (۱) گلابی۔ ہاتھ کے پیچھے سے کلابی ٹک۔
 ساعت سیمیں۔ (ن۔ ۱) صفت) خوبصورت کلابی۔ سفید کلابی۔
 ساعتی۔ (سا۔ عتی) (ن۔ ۱) صفت) گوشش کرنے والا۔ دور دھوپ کرنے والا۔
 ساعت۔ (سا۔ عت) (ن۔ ۱) مذ) (۱) شراب کا پیالہ۔ جام (۲) پیالہ۔ گلاس۔
 ساعت چلنا۔ (۱) محاورہ) شراب کا دور چلنا۔
 ساعت گھبنا۔ (ن۔ ۱) مذ) (۱) سرخ شراب کا پیالہ۔

ساغرکش۔ رن۔ صنف، شراب پینے والا۔

ساغر عمر چھلکنا (لمبر لڑ ہونا)۔ (۱۱۔ محاورہ) تریب المرگ ہونا۔ موت کا وقت قریب ہونا۔

ساغزی۔ (سا۔ غ۔ وی) ڈاڑ۔ (۱۔ مٹ) (۱) گھوڑے کی مقعد (۲) انسان کی مقعد (۳) ساغر سے خوب۔

ساقبل۔ (سا۔ قبل) (۱) صنف (۲) نیچے کا (۳) کینہ (۴) (۱) مذ (۲) پھیلا حجتہ۔

ساق۔ رن۔ (۱) مٹ (۲) پٹلی۔ ڈٹھل (۳) درخت کا تن (۴) ساگ پات کا ڈٹھل۔ ڈٹھی۔

ساق پوش۔ (۱) مذ (۲) موزہ۔ گیٹس۔

ساقظ۔ (سا۔ قظ) (۱) صنف (۲) گرا ہو (۳) بجکا (۴) متروک۔ مسترد۔ نامنظور شدہ۔

ساقظ کرنا۔ (۱) محاورہ (۲) حمل کے لیے گرانا (۳) مھر سے کو وزن یا مھر سے گرانا (۴) نامنظور کر دینا۔

ساقظ ہونا۔ (۱) محاورہ (۲) حمل گر جانا (۳) ہاتھ مار جانا (۴) بھرا یا جانا (۵) بھرا وزن سے گرتا۔

ساقن۔ (سا۔ قن) (۱) مٹ (۲) وہ بازاری عورت جو اوباش لوگوں کو شراب بیگ تھو دینا پلاتی ہو۔ ساقی کی مرث۔

ساقول۔ (سا۔ قول) (۱) مٹ (۲) مھاروں کا وہ اوزار جس سے دیوار کی سیدھ معلوم کرتے ہیں۔ پنسال۔ شکن۔

ساقی۔ (سا۔ قی) (۱) صنف (۲) مٹ (۳) شراب یا حقہ پلانے والا۔

ساقی ازل۔ (۱) صنف (۲) خدا تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ۔

ساقی کوثر۔ (۱) صنف (۲) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (۳) شید فرقہ کے مطابق حضرت علیؓ

ساقی گری۔ (۱) صنف (۲) مٹ (۳) شراب یا حقہ پلانے کا پیشہ۔

ساقی نامہ۔ (۱) صنف (۲) مٹ (۳) وہ نظم جس میں ساقی کو مخاطب کر کے شراب کا ذکر کیا جاتا ہے۔

ساگ۔ (۱) صنف (۲) مٹ (۳) شراب۔

ساگت۔ (سا۔ گت) (۱) صنف (۲) مٹ (۳) خاموش چپ۔ دم بخود

ساگٹ۔ (Socket) (سا۔ گٹ) (۱) مٹ (۲) کسی چیز کا خانہ یا گھر۔

ساگر۔ (Soccer) (سا۔ گر) (۱) مٹ (۲) بال کی ایک قسم جس میں گیند کو لاکھ نہیں لگایا جاتا۔

ساگن۔ (سا۔ گن) (۱) صنف (۲) مٹ (۳) بے حرکت۔ بھرا ہوا۔ قائم (۴) رہنے والا۔

مقیم۔ باشندہ (۳) (صرف دعو کی اصطلاح) وہ حرفت جس پر جزم ہو۔

ساکنان۔ ساکنین۔ (سا۔ ک۔ ن) (سا۔ ک۔ نین) (۱) صنف (۲) ساکن کی جمع۔ رہنے والے۔ باشندے۔

ساگہ۔ (سا۔ گہ) (۱) مٹ (۲) وہ داستانیں جو ہندو اپنے بہادروں کے متعلق گاتے ہیں۔

ساگہ۔ (۱) مٹ (۲) اعتبار۔ مھر (۳) نیک نامی۔ اچھی شہرت (۴) آن بان (۵) اصطلاح بھکاری کسی کارخانے وغیرہ کا نام اختیار کرنے اور اس کی ساگہ سے نائدہ اٹھانے کا حق۔

ساگہ جانا۔ (۱) محاورہ (۲) اعتبار اٹھ جانا۔ بھر دس نہ رہنا۔

ساگہ دار۔ (۱) صنف (۲) اصطلاح بنک کاری، قرضہ ادا کرنے کی طاقت رکھنے والا۔ (Credible)

ساگہ داری۔ (۱) اصطلاح بنک کاری، قرضہ ادا کرنے کی طاقت۔ مقدرت ذمہ داری۔ (Credibility)

ساگہ سونا پریت پیل۔ (۱) مٹ (۲) اعتبار سے جو کام نکلتا ہے وہ محبت سے بھی نہیں نکلتا۔

ساگہ لاکھ سے اچھی۔ (۱) مٹ (۲) اعتبار سے زیادہ کام دیتی ہے۔

ساگھا۔ (سا۔ گھا) (۱) مٹ (۲) شاخ۔ پتی۔ ڈال (۳) گھسان کی لڑائی (۴) ٹھار۔ جھگڑا (۵) کسی کے خلاف لڑائی کے لیے کچھ لوگوں کا ایک یا اتفاق۔

ساگھا پڑنا۔ (۱) محاورہ (۲) بڑی بھاری لڑائی پھڑنا (۳) بہت سنگین عارضہ ہونا۔

ساگھا ڈالنا۔ (۱) محاورہ بھگڑا کرنا۔ لڑنا جھگڑنا۔ فساد کرنا۔

ساگھی۔ (سا۔ گھی) (۱) مٹ (۲) مٹ (۳) ساتھ کھینے والی لڑکی۔ کھلی۔

ساگ۔ (۱) مٹ (۲) ہنری تکراری (۳) کھائی جانے والی بڑی بوٹی (۴) ساگن کا درخت۔

ساگ پات۔ (۱) مٹ (۲) بھاری تکراری۔

ساگ پات ہو جانا۔ (۱) محاورہ (۲) زم ہو جانا۔

ساگ میں شراب پھوٹا۔ (۱) مٹ (۲) پھوٹا ہوا۔ (۳) پھوٹا ہوا۔ جیسے معمولی کھانا پکانا بھی نہ آتا ہو۔

ساگ میں شراب اٹنڈے میں مانی۔ کیوں بی پھٹانی۔ (۱) مٹ (۲) اس عورت پر طنز ہے جسے کھانا پکانے کا سلیقہ نہ ہو۔

ساگر۔ (سا۔ گر) (۱) مٹ (۲) سمندر۔ بحر۔

ساگودانہ۔ (سا۔ گ۔ دا۔ نہ) (۱) مٹ (۲) ایک قسم کا دانہ جو ساگو کے تنے سے نکالا جاتا ہے۔

ساگون۔ (سا۔ گون) (۱) مٹ (۲) ایک مضبوط کڑی کا درخت۔ ساگون۔

گ کی زبرد پیش دونوں طرح صحیح ہے۔

سال۔ (۱) مٹ (۲) ایک قسم کا درخت جس کی کڑی کے تختے بنائے جاتے ہیں۔ ساگھو (۳) کڑی کا چھید۔ سوراخ (۴) گیدڑ۔ سیار (۵) مٹ (۶) ایک قسم کی پھلی (۷) کاٹا (۸) ق)

سال۔ (۱) مٹ (۲) برس (۳) مٹر (۴) سنہ۔

سال الہی۔ سال فصلی۔ (۱) مٹ (۲) وہ سال جو وصول مالگزار کی لیے فصلوں کے حساب سے اکبر کے زمانہ میں ایجاد ہوا۔

سال بسال۔ (۱) مٹ (۲) ہر برس۔ ہر سال۔

سال بکری۔ راجہ بکراجیت کا سال جو ششہ قبل مسیح سے شروع ہوتا ہے۔

سال بھاری ہونا۔ (۱) محاورہ (۲) کم (۳) سال خاص ہونا۔ سارا سال مصیبتوں میں گذرنا۔

سال بھر۔ (۱) مٹ (۲) تمام سال۔ سارے سال۔

سال بھر میں سنی سووم برابر ہو جاتے ہیں۔ (۱) مٹ (۲) سنی جلد اور کربوس

ریا کاری (۲) دغا باز۔ فریبی۔ دھوکے باز۔ مکار۔ ریا کار۔
سولوشن آرمی (۱۔ سال۔ دسے۔ شن۔ آ۔ رمی) (Salvation Army)
(آرمی) (ہنگ۔ ۱۔ منٹ) کمتی فرج۔ عیسائیوں کی ایک مذہبی
جماعت جو روحانی تسکین کی علم بردار ہے۔

سالی۔ (سالی۔ ۱۔ دھ۔ ۱۔ منٹ) بیوی کی بہن۔
سالی۔ (سالی۔ ۱۔ دھ۔ ۱۔ منٹ) وہ زمین جو سال بھر کے لیے کاشت پر لی جائے۔
سالے کہ نکوست از ہارس پیدا۔ (ن۔ بشل) جو ہزار ہروا کے چکنے
چکنے پات۔ جس کی ابتدا ایچی ہواس کا انجام بھی اچھا ہوتا ہے۔

سآم۔ (س۔ صفت) زہر رینے والا۔ کھانے میں زہر ملانے والا۔
سام۔ (ن۔ ۱۔ منٹ) حضرت نوح کا بڑا بیٹا جن کی نسل سامی کہلاتی ہے (۲) ایرانی
پہلوان رستم کے دادا کا نام (۳) مرکبات میں جیسے مسام (۴) آگ کا پتلا۔
سامان۔ (سا۔ مان) (ن۔ ۱۔ مذ) (۱) اسباب۔ مزدوری چیزیں (۲) تیاری۔
انتظام۔ بندوبست (۳) اوزار۔ آلات (۴) ہمتیا و ضروریات جنگ۔
(۵) آثار۔ علامات۔

سامان یا دھنا۔ (۱۔ محاورہ) چلنے کی تیاری کرنا۔
سامان لفریح۔ (ن۔ ۱۔ صفت) دل بہلانے کا سامان یا وہ ذریعے جن سے
دل بہلایا جاسکے۔

سامان جنگ (جنگ) حرب۔ (ن۔ ۱۔ مذ) ہتھیار اور گور بارود وغیرہ۔
سامان میں آنا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) جوش میں آنا۔ غصہ ٹھنڈا ہونا (۲) قابو میں
آنا۔ آپسے میں آنا۔

سامڈرک۔ (سا۔ مذ) (رک) (س۔ ۱۔ مذ) (۱) پامٹری۔ معلم الیڈ۔ فرسٹ الیڈ
ہاتھ پاؤں کی لکیر میں دیکھ کر انسان کے اچھے برے حالات بتا دینے
کا علم۔

سامراج۔ (سام۔ راج) (۱۔ ۱۔ مذ) (۱) شہنشاہی نظام حکومت۔
شہنشاہیت (۲) نوآبادیات اور مانت سلطنتیں رکھنے کی پالیسی
(Imperialism)

سامراجی۔ (سام۔ راجی) (۱۔ ۱۔ صفت) (۱) سامراج سے متعلق (۲) شہنشاہی
حکومت کا حامی۔ شہنشاہیت پسند۔
سامبری۔ (سام۔ بری) (۱۔ ۱۔ مذ) ایک یہودی جس نے حضرت موسیٰ کے
زمانے میں چاندی سونے کا ایک پچھڑا بنا کر بنی اسرائیل سے اس کی
پرستش کروائی تھی۔

سامبری فن۔ (سا۔ ۱۔ مذ) جادوگر۔ ڈھکے باز۔ اپنے فن کا استاد۔
سامح۔ (سا۔ بح) (۱۔ ۱۔ مذ) سننے والا۔ سماعت کرنے والا۔ جین سامعین۔
سامعہ۔ (سا۔ بح) (۱۔ ۱۔ منٹ) سننے کی قوت۔

سامعہ نواز۔ (سا۔ ن۔ ۱۔ ۱۔ صفت) (بھی) آواز سننے والا۔
سامعین۔ (سا۔ بح) (۱۔ ۱۔ مذ) سامح کی جمع سننے والے۔
سامنا۔ (سا۔ م۔ نا) (۱۔ ۱۔ مذ) (۱) غنا۔ ملاقات (۲) مقابلہ۔ (۳) ٹٹھ بھڑ۔

(۳) آگلا گاڑی (۴) برابری گتھی (۵) رُو بہ رُو۔ مقابلہ۔
سامنا کرنا۔ (۱۔ محاورہ) کسی بات کی تصدیق کے لیے کہنے والے اور نقل
کرنے والے کو رُو بہ رُو کرنا۔ مقابلہ کرنا۔

سامنا کرنا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) گت خانہ جو اب دینا (۲) تکرار کرنا۔ جھگڑانا (۳)
برابری کرنا۔ مقابلہ کرنا (۴) لڑنے کے لیے آگے بڑھنا۔

سامنا ہونا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) ڈبھڑ ہونا۔ رُو بہ رُو ہونا (۲) مقابلہ ہونا۔ طاق
ہونا۔ بے پردگی ہونا۔

سام وید۔ (سام۔ وید) ہندوؤں کے مقدس چار ویدوں میں سے دوسرا وید۔
سامنے۔ (سام۔ نے) (۱۔ ۱۔ ۱۔ ۱) تابع فعل (۱) رُو بہ رُو۔ ٹٹھ در ٹٹھ (۲)
موجودگی میں۔

سامنے آنا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) مقابلہ ہونا (۲) ٹٹھ دکھانا (۳) بدلہ ملنا۔
سامنے پڑنا۔ (۱۔ محاورہ) اتنا قدر نظر آجانا۔ سامنے آجانا۔ مقابلہ ہونا۔

سامنے بھڑنا۔ (۱۔ محاورہ) مقابلہ کرنا۔ مقابلہ ہونا۔ مقابلے کو برداشت کرنا۔
سامنے دھڑ لینا۔ (۱۔ محاورہ) آگے آگے چلنا۔ آگے کر لینا (۲) پکڑ لینا۔

سامنے کی آنکھیں پھوپھیں۔ (بد دغا) اندھا ہو جانا۔
سامنے کی بات۔ (۱۔ ۱۔ منٹ) جو بات موجودگی میں کہی گئی ہو۔ آنکھوں دیکھا مال۔

سامنے کی چوٹ۔ (۱۔ ۱۔ منٹ) مقابلے کی مار کھلی چوٹ۔ طعن مفز۔
سامنے ہونا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) مقابلہ کرنا (۲) گتھی سے پیش آنا (۳) پردہ
اٹھادینا یا پردہ نہ کرنا (۴) دھگل میں اُترنا۔

سامی۔ (سا۔ ی) (س۔ صفت) (۱) اُوچا۔ بلند۔ عالی (۲) سام کی نسل کے لوگ مثلاً
یہودی۔ عرب وغیرہ۔

سامی۔ (سا۔ ی) (۱۔ ۱۔ مذ) (۱) سواری کا تخت۔ خادند۔ شوہر پتی (۲)
(منٹ) زرخیز زمین (۳) سامنے۔ رُو بہ رُو (رق)

سان۔ (سا۔ ۱۔ منٹ) (۱) دھار رکھنے کا پتھر۔ سنگ۔ صیقل (۲) دھار۔ باڑھ۔
سان پر چڑھنا۔ (۱۔ محاورہ) باڑھ بردھکا جانا۔ دھار رکھی جانا۔

سان چڑھانا۔ سان دھرنا۔ سان رکھنا۔ سان لگانا۔ (۱۔ محاورہ) دھار
تیز کرنا۔

سان۔ (سا۔ ۱۔ منٹ) (۱) اشارہ (۲) نشان (۳) سُرُخ۔
سان گمان۔ (۱۔ ۱۔ مذ) (۱) اشارہ گمان (۲) وہم۔ خیال۔ نگر۔ اندیشہ۔

سان نہ گمان۔ (۱۔ متعلق فعل) (۱) دفتار۔ اچانک۔ بے خبری میں (۲)
ایسی حالت میں کہ خیال تک نہ ہو۔

سانپ۔ (سا۔ ۱۔ مذ) ایک رینگنے والا پتلا لہبا زہر لاکیر جس کی ٹانگیں نہیں
ہوتیں اور جو پیٹ کی ہڈیوں سے چلتا ہے۔ مار۔ افسی۔ ناگ۔ رسی۔ سرپ
(صفت) عالم۔ موذی۔

سانپ آٹارنا۔ (۱۔ محاورہ) سانپ کے ڈسے ہوئے جسم سے زہر دُور کرنا۔
سانپ اور چور دہلے پر چوٹ کرتے ہیں۔ (۱۔ مقولہ) جب پچاؤ کی کوئی
صورت نظر نہ آئے تو یہ تھکر کرتے ہیں ورنہ بھاگ جاتے ہیں۔

سانپ کچھو کچھنا۔ (۱۔ محاورہ) باعث ایذا سمجھنا۔ موذی خیال کرنا۔
سانپ چھاتی پر (بھرتا) لوٹنا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) بے حد رنج ہونا (۲) پچھتاوا
آنا۔ تپلانا (۳) رشک میں ملنا۔

سانپ سا لٹنا۔ (۱۔ محاورہ) بہت زیادہ تپا ہونا۔
سانپ سب جگہ ٹٹھ پھرتا ہے اسے بل میں سدا جاتا ہے۔
(ن۔ ۱) بڑا آدمی اور سب جگہ بڑائی کرنا ہے ٹٹھ پھرتے ٹٹھ میں سدا طے کرتے

سے رہتا ہے۔

سانپ سونگھ جانا۔ (۱- محاورہ) (۱) سانپ کا ڈس جانا (۲) سانپ کا نہر چڑھنے سے بیہوش ہو جانا (۳) چپ سا دھ لینا۔ دم بخود ہو جانا (۴) بلے خبر ہونا۔

سانپ سے کھیلنا۔ (۱- محاورہ) (۱) خطرناک انسان سے میل جول رکھنا (۲) خطروں میں پڑنا۔

سانپ کا بچہ پنوں لیا۔ (۱- مثل) (۱) بڑے آدمی کی اولاد بھی بڑی ہوتی ہے موزی آدمی کے بچے بھی خطرناک ہوتے ہیں۔

سانپ کا سر کھلنا۔ (۱- محاورہ) موزی آدمی کو جیت نہ چھوڑنا۔

سانپ کا کاٹا پانی نہیں مانگتا۔ (۱- مثل) سانپ کا ڈس ہوا بہت جلد مر جاتا ہے سانپ کا کاٹا راستی سے ڈرتا ہے۔ (۱- مثل) (۱) جسے بہت تکلیف پہنچ چکی ہو وہ تھوڑی سی تکلیف سے بھی گھبراتا ہے (۲) دودھ کا جلا چاچہ پڑوٹک پڑوٹک کر پیتا ہے۔

سانپ کا کاٹا سووے، کچھو کا کاٹا رووے۔ (۱- مثل) جسے سانپ کاٹ لے وہ بیہوش ہو جاتا ہے، لیکن جسے کچھو کاٹ لے وہ درد سے تڑپتا رہتا ہے۔

سانپ کا من۔ (۱- مذ) سانپ کا منکا جس کی بابت مشہور ہے کہ اندھیری رات میں سانپ اسے اگل کر اس کی روشنی میں گھومتا پھرتا ہے اور جس کے ہاتھ لگ جائے اسے ترشمال بنا دیتا ہے۔

سانپ کا منتر۔ (۱- مذ) وہ منتر جس سے سانپ کا کاٹا اچھا ہو جاتا ہے۔

سانپ کھلانا۔ (۱- محاورہ) (۱) سانپ کو جاؤ دیا منتر کے زور سے تسخیر کرنا (۲) خطرناک کام کرنا۔

سانپ کی چھتری۔ (۱- مثل) ایک پودا۔ لگرتا۔

سانپ کی سی کینٹلی (جھاڑنا) ڈالنا یا چھوڑنا۔ (۱- محاورہ) (۱) بیماری سے صحت پانا (۲) رنگ کھڑنا۔ بدن سوزنا۔

سانپ کی طرح چمن (جھاڑ) مار کر رہ جانا۔ (۱- محاورہ) (۱) قابو نہ چلنا (۲) ترشش کر کے مار جانا۔

سانپ کی طرح زمین کھڑنا۔ (۱- محاورہ) ہرگز نہ ملنا۔ (۲) کسی جگہ سے جنبش نہ کرنا سانپ کیلنا۔ (۱- محاورہ) منتر کے زور سے سانپ کے منتر کو بند کر دینا۔

سانپ کے پاؤں پیٹ میں ہوتے ہیں۔ (۱- مثل) بدذات کا مڑوی پن ظاہر نہیں ہوتا۔

سانپ کے منہ میں۔ (۱- متعلق فعل) سخت خطرے میں خطرے کی جگہ میں۔

سانپ کے منہ میں (پھچھو نذر) نکلے تو اندھا، اگلے تو کوڑھی۔ (۱- مثل) ایسا کام جسے نہ کیا جائے نہ چھوڑا جائے۔

سانپ کے سینے کا کچھو۔ (۱- وصف) (۱) ظالم۔ (۲) موزی بہت زہریلا۔ کچھو۔ جس نے سانپ کے سینے پر دروش پائی ہو۔

سانپ مرے نہ لایھی ٹوٹے۔ (۱- مثل) موزی آدمی کو اس طرح مارنا چاہیے کہ خود محفوظ رہے۔

سانپ نکل گیا لیکر پٹا کرو۔ (۱- مثل) موقع ہاتھ سے نکل گیا اب چھتا یا کرو۔

سانپ نہیں جو مٹی چاٹ کر رہیں۔ (۱- مثل) جس کے لیے عیبی خوراک موزوں ہے وہ دوسری ہی خوراک کھا کر زندہ رہ سکتا ہے۔

سانپ لے نہیں کاٹا۔ (۱- مثل) نشہ نہیں۔ بیگا ہوا نہیں ہے۔

سانپوں کی سبھا میں چلیسوں کی کپا لٹ۔ (مثل) موزی انسان جہاں کہیں اکٹھے بیٹھتے ہیں ایذا رسانی کی باتیں کرتے رہتے ہیں۔

سانپا۔ (ساں۔ پنا) (۱- مذ) (۱) ماتم سوگ (۲) پراسا۔

سانپے جانا۔ (۱- محاورہ) (۱) ماتم میں شریک ہونا (۲) پراسا دینے کے لیے جانا۔

سانپین۔ (ساں۔ پن) (۱- مثل) (۱) سانپ کی مادہ۔ ناگن۔ سپنی (۲) بھوزی یا بالوں کی لکیر جو بعض مردوں اور عورتوں کی پیٹھ یا گھوڑے کی ایال کے نیچے ہوتی ہے اور بہت محسوس بھی جاتی ہے۔

سانت۔ (سن۔ ت) (۱) ایک ستارہ (رواتی) جو برسات میں نکلتا ہے (۲) بارش۔ (۱- برنیساں)۔

سانٹ۔ (ساٹھ۔ ڈہ۔ ۱- مثل) (۱) گانٹھ۔ گرہ۔ گھجھی (۲) سازش۔ گلہ جوڑ۔ (۳) دشمنی۔ عداوت۔ کدورت (۴) اتفاق۔ ربط ضبط۔

سانٹ (ساٹھ) مار۔ (۱- مذ) (۱) ماضی لڑانے والا۔

سانٹ (لگانا) ملانا۔ (۱- محاورہ) سازش کرنا۔

سانٹ لینا۔ (۱- محاورہ) گانٹھ لینا۔ سازش کر کے اپنے ساتھ لالینا۔ یار بنا لینا۔

سانٹا۔ (ساں۔ ٹا) (۱- مذ) (۱) چاہک۔ تازیانہ۔

سانٹنا۔ (ساٹھنا۔ ساٹھ) (نا۔ ساٹھنا) (۱- وصف) (۱) دوست بنانا ساتھ ملانا (۲) چپکاتا (۳) نسی یا منسک کرنا (۴) اُلجھانا (۵) گرہ لگانا۔ جوڑ دینا۔

سانٹے کی سکاٹی۔ (ساں۔ ٹے۔ کی۔ سن۔ گا۔ ای) (۱- مثل) (۱) ریشہ جس میں لڑکی لے کر لڑکی دی جائے۔ بدلے کا رشتہ۔ (۲) دو ٹوٹا۔

سانٹھ۔ (سا۔ ٹھ) (۱- مذ) (۱) شام کا وقت (۲) دوستی۔

سانٹھ سویرے۔ (۱- متعلق فعل) صبح شام۔

سانچ۔ (سا۔ چ) (۱- مذ) (۱) حق صداقت۔

سانچ کو آج نہیں۔ (۱- مثل) (۱) کوئی ضروری چیز نہیں پہنچ سکتا۔

سانچ کے سواما را جائے۔ جھوٹ کے سولہ ڈکھائے۔ (۱- مثل) (۱) بولنے والے کو مصیبت اٹھانی پڑتی ہے جب کہ جھوٹ بولنے والا مزے اڑاتا ہے۔

سانچا۔ (ساں۔ چا) (۱- مذ) (۱) لڑی یا لہرے کا ڈھانچہ (۲) رحم۔ پتہ دانی (۳) قالب۔

سانچے کی سچی۔ وہ عورت جو مرد کے لٹنے کو صاف نہ ہونے دے۔ جسے وضع حمل کے بعد پہلی ہی صحبت میں حمل رہ جائے۔

سانچے میں ڈھالنا۔ (۱- محاورہ) (۱) کسی چیز کے قوام کو سانچے میں ڈال کر کسی خاص شکل یا وضع کا بنانا۔ کسی خاص وضع یا طریق کا بنانا لینا۔

سانچے میں ڈھلا ہونا۔ (۱- محاورہ) خوشا اور سڈول۔ سب اجزاء یا اعضا کا موزوں اور درست ہونا۔

سانچے میں ڈھل جانا۔ (۱- محاورہ) خود حالات کے مطابق بدل لینا یعنی اختیار کر لینا۔

سانچہ۔ (سا۔ ن۔ ح) (۱- مذ) (۱) صدمہ پہنچانے والا واقعہ۔ حادثہ۔ وقوعہ۔

سانگر۔ (ساں۔ گز)۔ (۱-۵)۔ مذ) جنڈک پھل جو چار میں ڈال جاتی ہے۔
 سانگی۔ (ساں۔ گی)۔ (۱-۵)۔ مذ) سانگ بھرنے والا۔ بھانڈ۔ (نقال ۲)
 (مٹ)۔ بیل گاڑی کا جوا (۳) گاڑی کے آگے کا وہ حصہ جس کے
 دونوں طرف ٹکڑیاں باندھ کر جالی بن دیتے ہیں تاکہ سامان
 دیندرہ گرنے نہ پائے (۴) گاڑی بان کے بیٹھنے کی جگہ۔
 سان لینا۔ (ساں۔ لے۔ نا)۔ (اڑ۔ مص)۔ (۱) شریک حال کر لینا۔ پھانت۔
 شریک جرم کرنا۔
 ساننا۔ (ساں۔ نا)۔ (اڑ۔ مص)۔ (۱) گزھنا۔ (۲) ملانا۔ (۳) بھر لینا۔ (۴) لٹوٹ کرنا۔
 آلودہ کر لینا۔
 سانوال۔ (ساں۔ وال)۔ (۱-۵)۔ مذ) ایک قسم کا چاول۔
 سانوٹا (ساںوٹھا)۔ (۱-۵)۔ صغ) ہوشیار۔ چوکت۔ چوکس (۲) مستعد۔ آمادہ۔
 سانوچیت۔ (وق۔ صغ) بے فکر۔
 سانولا۔ (ساں۔ ولا)۔ (سا۔ نو۔ را)۔ (۱-۵)۔ صغ) سیاہی مائل۔ یلغ۔
 نگیں۔ سبزہ رنگ آدی۔
 سانولا جانا۔ (۱-۵)۔ صغ) رنگ کالا ہو جانا۔
 سانولاسوننا۔ (۱-۵)۔ صغ) سانولے رنگ کا مرد۔
 سانولی۔ (سا۔ ولی)۔ (۱-۵)۔ صغ) نگیں صورت والی عورت۔
 سانولی صورت۔ (۱-۵)۔ صغ) نگیں چہرہ۔ حسن یلغ۔ خوبصورت۔
 سانلی۔ (سا۔ لی)۔ (۱-۵)۔ صغ) (۱) بھس اور کھل بلا جوا چارہ جو کالیوں اور
 بھینسوں کو دودھ کی افراط کے لیے کھلاتے ہیں (۲) کھیتی باڑی اور
 باغ کا کام کرنے والا آدی۔
 ساینٹ۔ (Sonnet)۔ (سا۔ نینٹ)۔ (انگ۔ ۱)۔ مذ) نظم کی ایک قسم۔
 جس میں چودہ مصرعے ہوتے ہیں اور اس کی ایک خاص بحر ہوتی ہے۔
 ساوچ۔ (وق۔ ۱-۵)۔ مذ) ایک اشرفی جانور۔
 ساورن۔ (Sovereign)۔ (سا۔ و۔ رن)۔ (انگ۔ ۱)۔ مذ) (۱) انگلستان
 کا ایک طوائف۔ (۲) بگتی۔ پونڈ۔ اشرفی۔
 ساوڑ۔ (سا۔ وڑ)۔ (ساوڑ)۔ (۱-۵)۔ صغ) (۱) زچہ خانے کی ناپاکی۔
 (۲) زچہ خانہ۔
 ساوڑی۔ (سا۔ و۔ ڈی)۔ (۱-۵)۔ صغ) وہ غلہ جو کھلیان میں سے عزیزوں
 کو بانٹنے کے لیے الگ کر لیا جاتا ہے۔
 ساون۔ (سا۔ ون)۔ (۱-۵)۔ مذ) برکی سال کا چوتھا مہینہ۔ برسات کا مہینہ
 (۱۵ جولائی سے ۱۵ اگست تک)۔
 ساون بھاوول۔ (۱-۵)۔ مذ) (۱) برسات کا پہلا اور دوسرا مہینہ (۲) دھوپ
 بھی بارش بھی (۳) وہ مکان جس میں چاروں طرف باریک باریک
 جالیاں لگی ہوں۔ جو دیکھنے میں بارش کا ساساں پیش کرتی ہوں (۴)
 ایک قسم کی آتش بازی۔
 ساون بھاوول کا ملنا۔ (۱-۵)۔ صغ) (۱) ساون کا مہینہ ختم ہو کر بھاوول
 کا مہینہ شروع ہونا۔ ان ایام میں اکثر بارش ہوتی ہے۔
 ساون کی بھرن پڑنا۔ (۱-۵)۔ صغ) زور سے بارش ہونا۔
 ساون کی بھڑکی۔ (۱-۵)۔ صغ) ساون کے مہینے میں زوردار بارش۔

ساون کے اندھے کو مہرا ہی سوجھتا ہے۔ (۱-۵)۔ صغ) (۱) بر شخص اپنی
 حالت کے مطابق سب کی حالت خیال کرتا ہے (۲) جو کیفیت ایک دفع
 نظر میں سما جائے وہی ہمیشہ پیش نظر رہتی ہے (۳) امیر شخص ہو جائے
 تو بھی اس کے دماغ میں امارت کی بوری رہتی ہے۔
 ساون کے جھالے۔ (۱-۵)۔ صغ) (۱) ساون کی زوردار بارش جو جلد ختم ہو جائے۔
 ساون ہرے نہ بھاوول سوکھے۔ (۱-۵)۔ صغ) ہر حال میں کیساں۔
 ساوننت۔ (سا۔ ونٹ)۔ (۱-۵)۔ صغ) (۱) بہادر۔ دلیر۔ جوان مرد۔ شجاع۔
 ساونٹا۔ (سا۔ ونٹھا)۔ (سا۔ ون۔ ٹا)۔ (۱-۵)۔ صغ) (۱) تیار۔
 تندرست (۲) جمع کیا ہوا۔
 ساونٹا کرنا۔ (۱-۵)۔ صغ) (۱) جمع کرنا (۲) ہوشیار یا چوکس کرنا۔
 ساونٹا ہو جانا۔ (۱-۵)۔ صغ) (۱) چوکس اور ہوشیار ہو جانا (۲) مقابلے پر آجانا
 (۳) سنبھل جانا۔
 ساونی۔ (سا۔ ونی)۔ (۱-۵)۔ صغ) (۱) ایک پھول جو ساون کے مہینے میں
 کھتا ہے (۲) فضل خریف جس میں دھان۔ جوار۔ باجرہ کئی دیندرہ اناج
 پیدا ہوتے ہیں (۳) وہ مٹھائی آم ترکاریاں اور میوہ دیندرہ جو ساون کے
 مہینے میں جھولے کے سامان کے ساتھ دودھ کے گھر سے دودھن کے
 ہاں بھیجا جاتا ہے (۴) ساون کے مہینے کی وہ رات جب پورا چاند ہو
 جاتا ہے (۵) ساون کے گیت۔
 ساہ۔ (۱-۵)۔ مذ) (۱) تاجر۔ سوداگر۔ بیوپاری (۲) ہراجن، بینکر (۳) دکاندار
 (۴) صراف (۵) دولت مند (۶) ذی عزت (۷) شریف (۸) عزت کا
 لقب جس سے ہراجن کو مخاطب کیا جاتا ہے (صغ) (۱) دیکھنا۔ (۲) انتظار۔
 ساہا۔ (سا۔ ہا)۔ (۱-۵)۔ صغ) (۱) ہندوؤں میں شادی کے دن۔ شادیوں کا موسم۔
 (۲) وقت۔ موسم (۳) کھیتی کاٹنے کا وقت۔
 ساہا چکنا۔ (۱-۵)۔ صغ) (۱) بہت سی شادیاں ہونا۔
 ساہنیا (ساہینم)۔ (۱-۵)۔ صغ) (۱) ادبیت۔ ادب۔
 ساہس۔ (سا۔ س)۔ (۱-۵)۔ صغ) (۱) جبر۔ ظلم (۲) شدت۔ تشدد (۳) جرات و استقلال۔
 ساہل۔ (سا۔ ہل)۔ (سا۔ ہول)۔ (۱-۵)۔ صغ) (۱) لوبے یا پتھر کا وہ
 کٹڑے دار گولا جس میں ڈوری باندھ کر معمار لوگ دیوار کی کچی کا پتہ
 چلاتے ہیں۔ پتال۔
 ساہجو۔ (سا۔ ہجو)۔ (۱-۵)۔ صغ) (۱) خیر خواہ۔ دوست (۲) سنی۔ داتا (۳)
 دیانت دار (۴) نیک نام (۵) سوداگر۔
 ساہوکار۔ (۱-۵)۔ صغ) (۱) ہراجن۔ بینکر (۲) صراف (۳) سود پر
 روپیہ چلانے والا۔
 ساہوکارا۔ (۱-۵)۔ صغ) (۱) صراف (۲) ساہوکاروں کا بازار۔ ایکس چینج۔
 (Exchange) (۳) صراف کا پیشہ۔
 ساہوکاری۔ (۱-۵)۔ صغ) (۱) سوداگری۔ تجارت (۲) صراف کا پیشہ۔
 (۳) دیانت داری (۴) شرافت۔
 ساہی۔ (سا۔ ہی)۔ (۱-۵)۔ صغ) (۱) سپہ۔ خاریشت۔ ایک جانور جس کے تمام
 بدن پر کانٹے ہوتے ہیں۔ خیال ہے کہ جس گھر میں ساہی کا کاشا ڈال دیا
 جائے وہاں لڑائی جھگڑا رہتا ہے۔

سائبان - (سا۔ جو۔ بان) (ذ۔ مکان یا نیچے کے آگے دھوپ اور بارش سے بچنے کے لیے ٹین کی چادریں یا چھوس کا چھپر۔ مکان کے آگے پڑے یا بانات کا ٹکیرا۔

سائڈ - (Side) (سا۔ اڈ) (انگ۔ ۱۔ مٹ) (۱) طرف۔ پہلو۔ جانب۔

اصل بٹل (۲) کنارہ۔ حاشیہ۔ سرس۔

سائز - (سا۔ ار) (ذ۔ ۱۔ مٹ) (۱) پھرنے والا۔ سیر کرنے والا۔ سیلانی (۲) باقی بچا ہوا تمام۔ سب۔ سارا (۳) پختگی۔

سائز خرچ - (۱۔ مذ) ہنگامی یا غیر مستقل یا عارضی خرچ۔ متفرق خرچ۔ (Contingent)

سائز واٹر - (۱۔ صفت) پھرنے والا۔ گردش کرنے والا۔

سائرن - (Siren) (سا۔ ا۔ زن) (انگ۔ ۱۔ مذ) ایک آلہ جس سے بلند آواز پیدا ہوتی ہے۔ جھونپو۔

سائز - (Size) (سا۔ ان) (انگ۔ ۱۔ مذ) (۱) قد۔ قامت۔ ڈیل ڈول۔

جسامت (۲) تاپ ڈھپنی ہوتے، کپڑے وغیرہ کا۔

سائفن - (Syphon) (انگ۔ ۱۔ مٹ) (۱) ٹیڑھی نالی جس کے ذریعے پانی کسی اونچے برتن کے کنارے سے گزر کر نیچے کے برتن میں گرتے ہیں۔

(۲) نالہ یا نہر جو کسی دوسری ندی، دریا یا نالے کے نیچے سے گزرا جائے۔

سائل - (سا۔ زال) (ذ۔ ۱۔ مذ) (۱) سوال کرنے والا۔ پوچھنے والا۔ (۲) چاہنے والا۔ طالب (۳) جاری ہونے والا (۴) دائرہ فیکر۔ بھکاری (۵) امید دار (۶) عرضی دینے والا۔

سائگہ - (سا۔ ا۔ لہ) (ذ۔ ۱۔ مٹ) (۱) سوال کرنے والی (۲) عرضی گزارنے والی۔

سائٹلین - (سا۔ ا۔ لین) (ذ۔ ۱۔ مذ) سائل کی حج۔ سوال کرنے والے۔

سائٹم - (ذ۔ ۱۔ مذ) چرنے والا۔

سائگہ - (ذ۔ ۱۔ مٹ) چرنے کے لیے بھیجا ہوا جانور۔

سائٹن - (Sign) (سا۔ ان) (انگ۔ ۱۔ مذ) (۱) نشان۔ علامت (۲) دخل۔ سائٹن بورڈ - (Sign Board) (انگ۔ ۱۔ مذ) دکان یا سڑک کے نام کا لکڑی یا ٹین کی چادری کا تختہ۔

سائٹن پوسٹ - (انگ۔ ۱۔ مذ) دوپتھر یا تختہ جس پر سڑک کا نام اور راستہ بتانے والا نشان بنا ہوا ہو۔

سائنس - (Science) (سا۔ انس) (انگ۔ ۱۔ مذ) (۱) علم۔ (۲) منضبط علم۔ وہ علم جس کی بنیاد تجربات پر ہو۔

سائنس دان - (انگ۔ ۱۔ مذ) سائنس کے کسی شعبے کا ماہر۔

سائنسی - (سا۔ ان۔ سی) (ذ۔ صفت) سائنس سے متعلق۔

سائو - (ذ۔ صفت) ساہو۔ ایمان دار۔ مبصوم۔

سائوچیت - (ذ۔ صفت) بے فکر۔

سائونڈ - (Sound) (سا۔ انڈ) (انگ۔ ۱۔ مذ) آواز۔ صوت۔

سائونڈ بکس - (Sound Box) (انگ۔ ۱۔ مذ) گراموفون کا وہ دہرائی جس کے ذریعے ریکارڈ سے آواز نکلتی ہے۔

سائونڈ پروف - (Sound Proof) (انگ۔ صفت) وہ مکان

یا جگہ جہاں سے آواز باہر نہ جائے۔

سائی - (سا۔ ای) (ذ۔ ۱۔ مٹ) (۱) وہ تھوڑی سی رقم جو معاملے ہو جانے کے بعد پیشگی دی جائے۔ بیعانہ۔ پیشگی (۲) ناپسنے گانے والوں کو پیشگی رقم۔

سائی بجانا - (۱) جس سے سائی لی ہو اس کی محفل میں ناپسنا گانا (۲) جس کام کی سائی لی ہو اسے پورا کرنا۔

سائیس - (سا۔ ایس) (ذ۔ ۱۔ مٹ) گھوڑے کی خدمت اور دیکھ بھال کرنے والا۔

سائیسٹی - (سا۔ ای۔ سی) (ذ۔ ۱۔ مٹ) گھوڑے کی رکھوالی اور خدمت کا پیشہ۔

سائیسٹی علم دریاؤں ہے۔ (مٹ) (۱) گھوڑے کے رکھ رکھاؤ کے لیے بڑی معلومات اور کاہلی (۲) ہر پیشے کے خاص گڑ ہوتے ہیں۔ بڑائی کے اظہار کے لیے کہتے ہیں۔

سائیکل - (Cycle) (سا۔ ای۔ گل) (انگ۔ ۱۔ مٹ) بائیسکل۔ پاؤں سے چلانے کی دوپہتہ گاڑی۔

سائین - (سا۔ این) (ذ۔ ۱۔ مذ) (۱) خدا۔ رب (۲) آقا۔ مالک (۳) شوہر (۴) خصم (۵) عارف۔ کامل (۶) گدا۔ فقیر (ذ۔ ۱۔ مذ) گھر جس سے درویش ایک دوسرے کو مخاطب کرتے ہیں۔

سائین راج بلند راج - چوت راج محتاج راج - (۱) مثل، خاندان کے دور میں عورت جتنا آرام اور عیش کرتی ہے۔ اولاد کے دور میں اتنا آرام نہیں ملتا۔

سائین کے سو کھیل ہیں - (۱) متولدہ خدا کسی کام کے لیے سینکڑوں ذریعے پیدا کر دیتا ہے۔ خدا ہر کام کو ہر طرح کر سکتا ہے۔

سائین سائین - (سا۔ این۔ سا۔ این) (ذ۔ ۱۔ مٹ) ہوا کے چلنے کی آواز ہوا کی سرسراہٹ۔

سائین سائین کرنا (ہونا) - (۱) محاورہ (۱) کمزوری کی وجہ سے جسم میں سنسنیاں دوڑنا (۲) ہوا کی وجہ سے درختوں کے پتوں میں سے آواز نکلنا (۳) وحشت یا دیوانی برتاؤ۔

سایا - (سا۔ یا) (ذ۔ ۱۔ مٹ) یورپ کی عورتوں کا ہنگامی یا گھاگھا۔ گاؤن۔

سایہ - (سا۔ یہ) (ذ۔ ۱۔ مٹ) (۱) پرجائش۔ چھاؤں۔ پرتو (۲) جن بھوت کا اثر۔ آسیب (ذ۔ ۱) پناہ۔ حفاظت۔ سرپرستی (۳) حمایت۔ (۴) محبت کا اثر (۵) تصویر یا فوٹو میں بنائی ہوئی یا قدرتی طور پر آئی ہوئی سیاہی (۶) (۷) ہوسوں کی اصطلاح، سفید کیے ہوئے تانے میں کسی نقص کی وجہ سے آجانے والی سیاہی (۸) (۹) علم کی اصطلاح، باہر کو نکلا ہوا۔

سایہ آتارنا - (۱) محاورہ (۱) جن بھوت کا اثر دور کرنا۔ آسیب دغ کرنا۔

سایہ اترنا - (۱) محاورہ (۱) آسیب دغ ہونا (۲) سایہ ڈھلنا۔ دن ڈھلنا۔

سایہ اٹھنا - (۱) محاورہ (۱) سرپرست کا تر جانا۔

سایہ اٹھن - (ذ۔ صفت) سایہ ڈالنے والا حفاظت یا مدد کرنے والا۔

سایہ بالی جہا - (ذ۔ ۱۔ مٹ) عرضی پرند جہا کا سایہ جس کے متعلق مشہور ہے

جس پر پڑ جائے وہ بادشاہ بن جائے۔
 سایہ بن کر ساتھ رہنا۔ (۱۔ محاورہ) کسی وقت جُمانہ ہونا۔ ہرقت ساتھ رہنا۔
 سایہ پروردہ۔ (۲۔ صفت) (۱) خانہ ناد غلام (۲) لاڈلا۔
 سایہ پڑنا۔ (۱) زمین پر کسی چیز کا سایہ پڑنا۔ پرچھائیں یا عکس پڑنا (۲)
 پرچھاؤں پڑنا۔ کسی کی خوبصورتی کا لینا۔ صحبت کا اثر ہونا۔
 سایہ خدا۔ (۲۔ صفت) (کنایتاً) بادشاہ۔ ظل اللہ۔
 سایہ دار۔ (۱۔ صفت) جس کے نیچے چھاؤں ہو۔
 سایہ ڈالنا۔ (۱۔ محاورہ) اثر ڈالنا۔ نبض صحبت سے مستفید ہونا۔
 سایہ ڈھلنا۔ (۱۔ محاورہ) تیسرے پہر کا وقت ہونا۔ سورج کا مغرب
 کی طرف جھک جانا۔
 سایہ زدہ۔ (۲۔ صفت) آسیب زدہ جس پر جنی مجبوت کا اثر ہو۔
 سایہ سمر پھر قائم ہونا۔ (۱۔ محاورہ) کسی بزرگ کا زندہ ہونا۔
 سایہ سمر سے اٹھنا۔ (۱۔ محاورہ) بزرگ۔ مرنی۔ سرپرست یا
 محافظ کا مرجانا۔
 سایہ عیاضت۔ (۲۔ صفت) (۱) ہربانی کا سایہ (۲) حمایت۔ ہربانی۔
 سایہ گستر۔ (۲۔ صفت) ہربان۔ توجہ کرنے والا۔ مدد یا حمایت کرنے
 والا۔ سرپرستی کرنے والا۔
 سایہ ہو جانا۔ (۱) صحبت کا اثر ہو جانا (۲) آسیب زدہ ہو جانا۔
 سائے تلے آنا۔ حفاظت میں آنا۔ سرپرستی یا پناہ میں آنا۔
 سائے سے (بھگانا) بھڑکنا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) بہت زیادہ ڈرنا (۲)
 نفرت کرنا (۳) بدگنا۔ دُور دُور ہونا۔
 سائے سے دُور دُور رہنا۔ (۱۔ محاورہ) نفرت کرنا۔
 سائے سے ڈرنا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) بہت زیادہ ڈرنا (۲) کسی پر اعتماد نہ کرنا۔
 سائے سے جھلنا۔ (۱۔ محاورہ) بہت نفرت کرنا۔ نبض رکھنا۔
 سائے کی طرح ساتھ ساتھ پھرنے۔ (۱۔ محاورہ) ہر وقت ساتھ لگے رہنا۔
 سائے میں آنا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) چھاؤں میں آنا (۲) پناہ یا
 سرپرستی حاصل کرنا۔
 سائے میں پلنا۔ (۱۔ محاورہ) کسی کے ہاں پرورش پانا۔

جیسے شرارتی اور تکلیف دینے والے ہیں۔
 سب ایک ہی ناؤ میں سوار ہیں۔ (۱۔ مثل) سب کی حالت ایک
 جیسی ہے۔
 سب بات کھوٹی پہلے دال روٹی۔ (۱۔ مثل) پیٹ کی ٹکر سب
 سے پہلے۔ اول طعام بعدہ کلام۔
 سب چیز کی لہر بہ رہے۔ (۱۔ مثل) کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ سب
 کچھ موجود ہے۔
 سب درجہ نلکا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) ہر ممکن جگہ تلاش کرنا (۲) مارے
 مارے پھرنے۔
 سب دن چنگے تہوار کے دن ننگے۔ (۱۔ مثل) فضول خرچ آدمی
 موقع پر کچھ پاس نہ ہونے کی وجہ سے شرمندگی اٹھاتا ہے۔
 سب دھان (بارہ) بائیس پسیری۔ (۱۔ مثل) بھلے بُرے کی
 کوئی تیز نہیں۔
 سب سے بُری ہونا۔ (۱۔ محاورہ) کسی سے کوئی واسطہ یا تعلق نہ رکھنا۔
 سب سے بھلی چوٹی۔ (مثل) خاموشی سب سے بہتر۔
 سب طرح سے حاضر ہونا۔ ہر ممکن خدمت کے لیے تیار ہونا۔
 سب کا سب۔ (۱۔ متعلق فعل) کل۔ سارے کا سارا۔ تمام وکمال۔
 سب کچھ۔ (۱۔ متعلق فعل) ہر ایک بات۔ ہر ایک چیز۔ سب چیز۔ ہر بات۔
 سب کچھ گیا میاں کی رخ نہ گئی۔ (۱۔ مثل) کنگال ہو گئے پھر بھی
 نشی ماننے کی عادت نہ چھوٹی۔
 سب کچھ ہو ہو کر۔ (۱۔ متعلق فعل) معاملے ہو کر۔ کارروائی ختم
 ہو جانے کے بعد۔
 سب کو ایک آنکھ (نظر) دیکھنا۔ (۱۔ مثل) سب کو یکساں سمجھنا۔ کسی
 کی طرف داری نہ کرنا (۲) کانے آدمی کے بارے میں مزاحمت
 بہتر ہیں۔
 سب کو ایک لالھی (سے) لانگنا۔ (۱۔ مثل) مرتبے اور حیثیت کا
 لحاظ نہ کر کے ہر ایک سے یکساں برتاؤ کرنا۔
 سب کوئی۔ (۱۔ متعلق فعل) ہر شخص۔ ہر ایک۔
 سب کہنے کی باتیں ہیں۔ (۱۔ محاورہ) (۱) بناوٹی باتیں ہیں۔ اصلیت
 کچھ نہیں (۲) خیالی باتیں ہیں جن پر عمل نہیں ہو سکتا۔
 سب کہیں۔ (۱۔ متعلق فعل) ہر جگہ۔ سب جگہ۔ ہر کہیں۔
 سب کے دیکھتے۔ (۱۔ متعلق فعل) سب کی موجودگی میں۔ لوگوں کے سامنے۔
 اعلانیہ۔ کھلم کھلا۔
 سب گنوں پورا۔ (۱۔ مثل) اس شخص پر طرز جس میں ساری ہی بڑائیاں
 پائی جاتی ہوں۔
 سب ہاتھ سے بیٹھے ہیں۔ اس موقع پر کہتے ہیں جب اہل محل
 کسی کے انتظار میں کھانے کو ہاتھ نہ لگائیں۔
 سب۔ (Sub) (انگ۔ صفت) نیچے۔ تلے۔ زیر۔ تحت میں۔ نائب۔
 ماتحت۔ سب اور ڈینیٹ (Subordinate) کا مختلف۔
 سب اور ڈینیٹ۔ (Subordinate) (انگ۔ مذ) ماتحت۔ تابع۔

س۔ س۔ س۔

سب۔ (۱۔ صفت) (۱) گالی دینا۔ لعن طعن کرنا (۲) بڑبھلا کرنا۔
 سب دشتم۔ (۲۔ صفت) (۱) لعن طعن کرنا۔ گالی گونج۔ بڑبھلا کرنا۔
 سب۔ (۲۔ صفت) (۱) سارا۔ کل۔ تمام (۲) ہر ایک (۳) ہر طرح کا (۴)
 ہلوا۔ سالم۔ کامل (۵) شامل۔ مشرک (۶) بالکل۔ سراسر۔ یک قلم (۷)
 میزان۔ مجموعی طور پر (۸) عام لوگ۔ ساری دنیا۔
 سب اپنے بہو بیگانی۔ (۱۔ مثل) عورتیں ایسے بہتی ہیں کہ بہو دوسرے
 خاندان کی بیٹی ہوتی ہے۔
 سب ایک ہی ٹھیلے کے چٹے چٹے ہیں۔ (۱۔ مثل) سب ایک

سب آفس (Sub Office) (انگ۔ ا۔ مٹ) دفتر ماتحت ڈاکخانہ۔
 سب اسسٹنٹ سرجن (Sub Asstt. Surgeon) اسسٹنٹ سرجن کا ماتحت ڈاکٹر۔
 سب انجینئر (Sub Engineer) (انگ۔ ا۔ مذ) انجینئر کا نائب۔
 سب انسپکٹر (Sub Inspector) انسپکٹر کا نائب (پولیس) تھانے دار۔ کوتوال۔
 سب اوور سیر (Sub Overseer) اوور سیر کا نائب۔
 سب ایجنٹ (انگ۔ ا۔ مذ) ایجنٹ کے ماتحت کام کرنے والا (۲) وہ گشتہ یا دوکاندار جو کسی بڑے ایجنٹ سے مال لے کر فروخت کرتا ہو۔
 سب ایجنسی (انگ۔ ا۔ مٹ) (۱) سب ایجنٹ کا دفتر (۲) چھوٹی ایجنسی۔
 سب ایڈیٹر (انگ۔ ا۔ مذ) ماتحت ایڈیٹر۔
 سب پوسٹ آفس (Sub Post Office) (انگ۔ ا۔ مذ) شہر کے کسی محلے یا علاقے کا ڈاک گھر جو جنرل پوسٹ آفس کے ماتحت ہو۔
 سب پوسٹ ماسٹر (Sub Post Master) سب پوسٹ آفس کا اچارج۔
 سب جج (Sub Judge) (انگ۔ ا۔ مذ) وہ عالم دیوانی جو جج کے ماتحت ہوتا ہے۔
 سب ججی (ا۔ مٹ) (۱) سب جج کا جہدہ (۲) سب جج کا دفتر۔
 سب ڈویژن (Sub Division) (انگ۔ ا۔ مذ) ضلع کا ایک حصہ۔
 سب ڈویژنل آفیسر (Sub Divisional Officer) (انگ۔ ا۔ مذ) وہ افسر جو سب ڈویژن کا اچارج ہو۔
 سب رجسٹرار (Sub Registrar) (انگ۔ ا۔ مذ) رجسٹرار کا نائب جو رجسٹریوں کی تصدیق کرتا ہے۔
 سب سکرٹری (Subscriber) (انگ۔ ا۔ مذ) خریدار۔ چندہ دینے والا۔ چندہ دینے والوں کی فہرست میں نام لگانے والا۔
 سب کمیٹی (Sub Committee) (انگ۔ ا۔ مٹ) بڑی کمیٹی کے ارکان کی بنائی ہوئی چھوٹی کمیٹی۔
 سب لیٹ (Sublet) کرایہ دار کا مکان اور لو کو لٹے پر اٹھا دینا۔
 سب میرین (Submarine) (سب۔ مے۔ رین) (انگ۔ ا۔ مٹ) آب دوز۔ کشتی۔ تحت البحریہ۔
 سب (س۔ با) (انگ۔ ا۔ مذ) بین میں مکہ بلیس کے شہر کا نام جو کہ حضرت سلیمان کی ہمصر تھی۔
 سبائیہ (سب۔ با۔ بہ) (انگ۔ ا۔ مٹ) انگشت شہادت۔ انگوٹے کے پاس کی انگلی۔
 سب اس (س۔ باس) (انگ۔ ا۔ مذ) (۱) خوش بو۔ عطر۔ پھیل (۲) ہلک والا۔ خوشبو دار۔
 سباق (س۔ باق) (انگ۔ ا۔ مذ) علم و حساب کی ہمارت۔ سبقت لے جانا۔

سیاق کے ساتھ مل کر آتا ہے (سیاق و سباق)۔
 سبائی (س۔ با۔ امی) (انگ۔ صغ) سب (قدیم میں) کا باشندہ۔ سب سے منسوب ہے۔
 سبب (س۔ ب) (انگ۔ ا۔ مذ) (۱) وجہ۔ باعث۔ موجب۔ واسطہ۔ لینے۔ کارن (۲) محبت۔ دلیل (۳) ذریعہ۔ وسیلہ۔ واسطہ (۴) وہ چیز جو دو چیزوں کو ملائے۔ پیوند۔ جوڑ (۵) علم عروض کی اصطلاح (۶) کلہ دھرتی (۷) (فلسفے کی اصطلاح) وہ چیز جس سے دوسری چیز کا وجود حاصل ہو۔
 سبب کھلنا (ا۔ محاورہ) وجہ ظاہر ہونا۔
 سببیت (س۔ ب۔ بی۔ یت) (انگ۔ ا۔ مٹ) (۱) عرض و دعایت یہ اصول یا کلیہ کہ ہر شے کا سبب یا علت ہوتی ہے۔
 سبقت (انگ۔ ا۔ مذ) آرام اور عبادت کا دن جو مسلمانوں کے یہاں بچہ۔ یہودیوں میں سینچر اور عیسائیوں میں اتوار ہے۔ انگریزی۔ (Sabbath)
 سبجیکٹ (Subject) (انگ۔ مذ) موضوع۔ مضمون۔ رعیت (۲) مگر شہ۔ سبقت ٹرک (انگ۔ ا۔ مذ) (۱) سات آسمان (۲) شش چہت۔
 سبحان (سب۔ حان) (انگ۔ مذ) کلہ توصیف (۱) خدا کو پاکی سے یاد کرنا (۲) خداوند پاک۔
 سبحان اللہ (کلہ تعین) (۱) اللہ پاک ہے (۲) میں اللہ کو پاک کے ساتھ یاد کرتا ہوں۔ دائرہ تعین یا طرز کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔
 سبحان تیری قدرت (انگ۔ مٹ) (۱) اللہ تیری قدرت کے کیا کہنے۔ (۲) تیرے معزز و بولی (۳) تعجب اور طرز کا اظہار۔
 سبحن (سب۔ حن) (انگ۔ ا۔ مٹ) تسبیح۔ ہالا۔
 سبحہ سنج۔ سبحہ گرواں (انگ۔ صغ) تسبیح پڑھنے والا۔
 سبڈ (س۔ بڈ) (انگ۔ ا۔ مذ) (۱) ڈاکرا۔ ٹوکری (۲) نذر کی ڈالی۔
 سبز (سب۔ ز) (انگ۔ ا۔ مذ) (۱) ہرا (۲) کچا۔ تازہ تازہ۔ شاداب۔ ترد تازہ۔ سبز باغ دکھانا۔ (انگ۔ ا۔ مذ) دھوکا دینا۔ فریب کرنا (۲) فائدہ پہنچنے کی چھوٹی امیدیں دلانا۔
 سبز بخت (سب۔ ز) (انگ۔ ا۔ مٹ) (۱) اندر بجا امانت کا ایک سوائی کردار۔ (۲) شراب (۳) خوبصورت عورت جو سبز رنگ کے لباس میں ہو۔
 سبز پوش (سب۔ ز) (انگ۔ ا۔ مذ) سبز لباس والا (۲) اکتائیتا۔ زاہد۔ عابد۔
 سبز قدم (سب۔ ز) (انگ۔ ا۔ مذ) محوس۔ نامبارک۔ شوم۔
 سبز ہونا (انگ۔ ا۔ مذ) ہرا بھرا ہونا۔ ترد تازہ ہونا (۲) رونق پکھلانا۔
 سبزہ (سب۔ ز) (انگ۔ ا۔ مذ) (۱) روئیدگی۔ نباتات (۲) زرد۔ پتلا۔ (۳) دائرہ ہریا دل۔ شادابی۔ طاوت۔ تازگی (۴) کان کا ایک نر (۵) نیل کنٹھ (۶) ایک قسم کا آم (۷) وہ گھوڑا جس کی سینڈی نل پر سیاہی ہو (۸) وہ سبزی جو ڈاکھی مرنبھوں کے نئے بال نکلنے سے پہلے چہرے پر نمودار ہوتی ہے۔

سبزہ آغاز - (ف۔ صف) جس کے ڈاڑھی موچیں نکلنی شروع ہوئی ہوں۔ فوجان فوجیز لڑاکا۔

سبزہ آنا - (ا۔ محاورہ) ڈاڑھی موچھ نکلنی شروع ہونا۔

سبزہ لے گانا - (ا۔ محاورہ) خود روگھاس۔ جڑی بوٹیاں۔

سبزہ خط - (ف۔ ا۔ مذ) نئی ڈاڑھی موچیں نکلنے کی سبزی۔

سبزہ خوابیدہ - (ف۔ ا۔ مذ) جھکی ہوئی سبز گھاس۔

سبزہ رنگ - (ف۔ صف) (ا) ساؤلا (۲) کنٹیا (۳) ساؤلا مشق۔

سبزہ زار - (ف۔ ا۔ مذ) جہاں دُور دُور تک ہری گھاس لگی ہوئی ہو۔

سبزہ شمشیر - (ف۔ ا۔ مذ) وہ رنکت جو اسیل تلوار کے جوہر میں ہوتی ہے۔

سبزہ اہلبانا - (ا۔ روزمرہ) گھاس کا ہوا کے جھونکوں سے ہلنا یا ہلانا۔

سبزہ (فوغاستہ) فوجیز - (ف۔ ا۔ صف) نیا نیا لگا ہوا سبزہ۔

سبزی - (سب۔ زری) (ف۔ ا۔ صف) (۱) سبز رنگ (۲) ہریاولی ہریالی

(۳) ساگ پات۔ ترکاری (۴) تلوار کے جوہر کارنگ (۵) ڈار۔

ا۔ مذ) بھنگ۔

سبزی پینا - (ا۔ محاورہ) بھنگ پینا۔

سبزی خوردہ - (ف۔ صف) صرف سبزیاں ترکاریاں کھانے والا۔ گوشت

سے پرہیز کرنے والا۔ دیگی میٹرن۔ (Vegetarian)

سبزی فروش - (ف۔ صف) (۱) سبزیاں ترکاریاں بیچنے والا۔ کبڑا۔

(۲) بھنگ فروش۔

سبزی منڈی - (ا۔ صف) ترکاریوں کی منڈی۔

سبط - (ع۔ ا۔ مذ) (۱) بیٹے بیٹی کی اولاد۔ پوتا۔ نواسا (۲) یہودی قوم۔

سبطین - (سب۔ طین) (ع۔ ا۔ مذ) دو پوتے یا دو بہتے (۲) حضرت امام حسنؑ اور حضرت امام حسینؑ (جو رسول اللہ صلم کے نواسے تھے)۔

سبغ - (ع۔ صف) سات - ۷۔

سبغ سیارہ - (ع۔ ا۔ مذ) سات سیارے (۱) مریخ (۲) مشتری (۳)

دحل (۴) زہرہ (۵) عطارد (۶) شمس (۷) مریخ۔

سبغ مشائی - (ع۔ ا۔ صف) سورہ فاتحہ جس میں سات آیتیں ہیں۔

مشائی اس لیے کہتے ہیں کہ ہر دو گانے میں دو بار پڑھی جاتی ہے یا اس واسطے

کہ دو دفعہ نازل ہوئی۔ ایک مرتبہ کتے میں دوسری مرتبہ مدینے میں۔

سبق - (س۔ یق) (ع۔ ا۔ مذ) (۱) کتاب کا وہ حصہ جو شاگرد استاد سے پہلے

درس ایک مرتبہ میں پڑھے (۲) عبرت۔ تجربہ۔ نصیحت (۳) سزا۔

گوش مالی (۴) سبقت۔ پیش روی۔ جمع اسباق۔

سبق بر زبان ہونا - (ا۔ محاورہ) سبق اچھی طرح یاد ہونا۔

سبق پڑھانا - (ا) درس دینا (۲) سکھانا۔ طریقہ بتانا (۳) بہکانا۔ چٹی

پڑھانا۔ دم دینا۔

سبق پڑھنا - (ا۔ محاورہ) (۱) تعلیم لینا۔ سیکھنا (۲) طریقہ معلوم کرنا (۳)

سیکھنے میں آجانا (۴) نصیحت لینا۔ عبرت حاصل کرنا۔

سبق خواں - (ف۔ ا۔ مذ) طالب علم۔

سبق دینا - (ا۔ محاورہ) (۱) پڑھانا۔ سکھانا (۲) نصیحت کرنا۔ کام کی بات

بتانا (۳) سزا دینا۔ گوشالی کرنا۔

سبق رواں ہونا - (ا۔ محاورہ) جو کچھ پڑھا یا گیا ہو وہ خوب اچھی طرح

یاد ہونا۔

سبق لینا - (ا) آگے پڑھنا (۲) سیکھنا (۳) عبرت پکڑنا۔

سبق ہلنا - (ا) سزا ہلنا۔ تادیب ہونا (۲) عبرت حاصل ہونا۔

(۳) درس ہلنا۔

سبقت - (سب۔ قت) (ع۔ ا۔ صف) (۱) کسی سے آگے نکل جانا (۲)

پیش قدمی (۳) ترجیح۔ فزیت۔ برتری۔ برائی۔ شرف۔

سبقت کرنا - (ص۔ مکتب) پہل کرنا۔ شروع کرنا۔ ابتدا کرنا۔

سبقت لے جانا - (ا۔ محاورہ) اپنی برتری ثابت کر دینا۔ فزیت لے

جانا۔ غالب آجانا۔

سبک - (س۔ بک) (ف۔ صف) (۱) ہلکا۔ کم وزن (۲) تیز۔ چست دھالاک

(۳) کم ظن (۴) ذلیل۔ رسوا۔ بے عزت (۵) شرمندہ (۶) بے تعلق۔

سبک بار - (بال) (ف۔ صف) جس پر کوئی بوجھ نہ ہو۔ اکیلا بھڑا دم۔

فارغ البال۔

سبک پا - (ف۔ صف) تیز رفتار۔ جلدی چلنے والا۔

سبک پائی - (ف۔ ا۔ صف) تیز چال۔ تیز رفتاری۔

سبک پرواز - (ف۔ ا۔ صف) تیز اڑنے والا۔ جلدی جلدی ہر مارنے والا۔

سبک تیز - (ف۔ صف) (۱) چست دھالاک (۲) تیز رفتار۔

سبک دست - (ف۔ صف) (۱) ہاتھ کے سبز کا کام جلدی کرنے والا۔ پھیر تپنا

تیز دست (۲) جس کا ہاتھ میں نفاست ہو۔

سبک دستی - (ف۔ ا۔ صف) (۱) ہاتھ کی پھرتی (۲) کام کرنے والے کے

ہاتھ کی نفاست۔

سبک دوش - (ف۔ صف) (۱) جس پر کوئی بوجھ نہ ہو۔ فارغ البال (۲)

جو فارغ کر دیا گیا ہو (۳) آزاد۔ بے تعلق (۴) بری الذمہ۔

سبک دوشی - (ف۔ ا۔ صف) (۱) آزادی۔ بے تعلق (۲) کسی کام کی

ذمہ داری سے دست برداری۔

سبک رفتار - (ف۔ صف) تیز چلنے والا۔

سبک رفتاری - (ف۔ صف) تیز چال۔

سبک روح - (ع۔ ف۔ صف) (۱) خوش رہنے والا۔ بے تعلق۔

سبک سار - (ف۔ صف) (۱) ہلکا۔ چھوڑا۔ بے عزت۔ بے وقار۔

(۲) کینہ۔ برزیل۔

سبک ساری - (ف۔ ا۔ صف) (۱) چھوڑ دینا (۲) ذلت (۳) بے تعلق۔

سبک سر - (ا) اوجھا۔ کم ظن۔ کینہ (۲) بے حوصلہ۔ بے غیرت۔

سبک مسری - (ا) تمہیں پن (۲) حماقت۔ ہلکا پن۔

سبک سیر - تیز رفتار۔ تیز چلنے والا۔

سبک بختال - (ف۔ ا۔ صف) تیز چلنے والا گھوڑا۔

سبک کرنا - (ا۔ محاورہ) شرمندہ کرنا۔ بے عزت کرنا۔

سبک کام - (ف۔ صف) تیز رفتار۔ جلدی چلنے والا۔

سبک جونا - (ا۔ محاورہ) (۱) شرمندہ ہونا (۲) خلیف ہونا۔ پھیر ہونا۔ نظروں

سبیل لگانا۔ (۱۔ محاورہ) پیاسے راہگیروں کے لیے پانی کا انتظام کرنا۔
سبیل نکالنا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) ذریعہ یا وسیلہ پیدا کرنا (۲) طریقہ وضع کرنا۔

سہا بگھانا (۱) کسی چیز کا بناوٹ میں نقیص ہونا (۲) فارغ یا بڑی الذمہ ہونا۔

س۔ پ

سنگنا۔ (س۔ بگ۔ نا) (۱) وہ بھس (۲) سسکی بھرنے۔

سنگیاں مارنا۔ (۱۔ محاورہ) سسکیاں بھرنے۔ دوستے میں ہچکیاں لینا۔

سنگی۔ (سب۔ کی) (۱) دف۔ (۲) زناکت۔ (۳) زناکت۔ (۴) رسوائی۔ بے عزتی۔

سنگی ہونا۔ (۱۔ محاورہ) جھفت اٹھانا۔ ذلت ہونا۔

سنگل۔ (س۔ کی) (۱) ذ۔ (۲) آنکھ کا جالا۔ موتیا بند (۳) بھل گند۔

سنگل۔ (س۔ بلی) (۱) ذ۔ (۲) طریقے۔ ذریعے (۳) طرز زندگی۔ رہائش کا طریقہ (۴) قاعدہ۔ قانون۔ رسم (۵) روشن راہیں۔ سبیل کی جمع۔

سنگل۔ (سب۔ بلی) (۱) ذ۔ (۲) نقیب زنی کا آلہ پھال۔

سنگو۔ (س۔ بلی) (۱) ذ۔ (۲) گھڑا۔ مٹکا۔

سنگو بدوش۔ (۱) ذ۔ (۲) صفت۔ کدے بزرگوار اٹھائے ہوئے۔ شاعری میں عام طور پر ساقی (مستوق) کے لیے استعمال ہوتا ہے۔

سنگو چہ۔ (س۔ بلی) (۱) ذ۔ (۲) چھوٹا گھڑا۔ ٹھلیا۔

سنگورا۔ (۱) ذ۔ (۲) وہ ہمرئی آلہ جس سے خوریں چھٹی کھیتی ہیں۔

سنگوس۔ (س۔ بلی) (۱) ذ۔ (۲) ستر کی خشکی۔

سنگوسہ۔ (س۔ بلی) (۱) ذ۔ (۲) ستر کے بالوں کی خشکی۔

سنگوٹھی۔ (۱) ذ۔ (۲) مبارک۔ مسعود۔

سنگوٹھن۔ (۱) ذ۔ (۲) دھاتے تاروں کا ایک بڑج میں ہونا۔

سنگھا۔ (س۔ بھا) (۱) ذ۔ (۲) مجلس۔ محفل۔ جلسہ۔ جزم (۳) انجمن۔

سنگھایت۔ (۱) ذ۔ (۲) جماعت۔ پانچاہیت۔

سنگھاپتی۔ (۱) ذ۔ (۲) میر محفل۔ میر مجلس۔ صدر جلسہ۔ سرتیج۔

سنگھاسد۔ (۱) ذ۔ (۲) شریک جلسہ۔ ممبر مجلس۔

سنگھاگ۔ (س۔ بھاگ) (۱) ذ۔ (۲) خوش نصیبی۔ اقبال مندی۔

سنگھاگی۔ (س۔ بھاگ) (۱) ذ۔ (۲) خوش نصیب۔ اقبال مند۔

سنگھاؤ۔ (س۔ بھاؤ) (۱) ذ۔ (۲) اچھا برتاؤ۔ (۳) خوش اخلاقی (۴) قاعدہ۔ ڈھنگ۔

سپا۔ (سپ۔ پا) (۱) ذ۔ (۲) نشانہ۔ ہدف (۳) ڈھنگ۔ ڈھب۔ (۴) خاصہ (۵) مزارع (۶) سپی کا نصف ٹکڑا۔

سپا بھیننا۔ (۱۔ محاورہ) کام مرضی کے موافق ہو جانا۔

سپا لڑانا۔ (۱۔ محاورہ) پتیس بھانا۔ ڈھنگ ڈالنا۔ اچھا تعلق قائم کر لینا۔

سپا لڑنا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) موقع ملنا۔ رسائی ہونا (۲) موافقت ہونا۔ ہم نوائی ہونا (۳) آشنا فی ہونا۔

سپا لگانا (لگانا) مارنا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) نشانہ لگانا۔ نشانے پر مارنا (۲) آشنا فی کرنا (۳) پھانسا۔ حال ڈالنا۔ پھندا لگانا۔

سپاٹ۔ (س۔ پاٹ) (۱) ذ۔ (۲) صاف۔ صاف۔ برابر۔ برابر۔ ایسی سطح جو بغیر اوجھلجھج کے ہو۔ چھیل (۳) صاف۔ سادہ۔

سپاٹا۔ (س۔ پاٹا) (۱) ذ۔ (۲) چھپٹ۔ طرارہ (۳) ایسی دوڑ جو بہت تیز دوڑی جائے (۴) سیر تاشا۔

سپاٹا بھرنے۔ سپاٹا لگانا۔ سپاٹا مارنا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) طرارہ بھرنے۔ دوڑ لگانا (۲) بزنسے کا اڑ جانا۔

سپارا۔ (س۔ پا۔ را) (۱) ذ۔ (۲) تفتیب کی ٹوپی۔ سر ڈگر۔ شغف۔

سپارہ۔ سپیارہ۔ (س۔ پا۔ رہ) (۱) ذ۔ (۲) قرآن شریف کو تیس حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پارہ قرآن۔

سپارو۔ (س۔ پا۔ رو) (۱) ذ۔ (۲) سر ڈگر۔ تفتیب۔

سپاری۔ (س۔ پا۔ ری) (۱) ذ۔ (۲) ڈلی۔ چھالیہ (۳) شغف۔ سر ڈگر۔

سپاس۔ (س۔ پاس) (۱) ذ۔ (۲) شکر۔ شکر گزاری (۳) تعریف۔ شائش۔ ثنا۔

سپاس گزار۔ (۱) ذ۔ (۲) شکر۔ شکر گزاری۔

سپاس گزاری۔ (۱) ذ۔ (۲) شکر گزاری۔

سپاس نامہ۔ (۱) ذ۔ (۲) تحریری اظہار شکر۔ ایڈریس۔

سپاہ۔ (س۔ پاہ) (۱) ذ۔ (۲) فوج۔ لشکر۔

سپاہ سالار۔ سپہ سالار۔ (۱) ذ۔ (۲) فوج کا کمان دار۔ کمانڈر ان چیف۔

سپاہ گری۔ (۱) ذ۔ (۲) سپاہی کا کام یا پیشہ۔

سپاہ گری کے پیش فن ہیں۔ (۱) ذ۔ (۲) کوئی کام انجام دینے میں ہر تدبیر آزمانی چاہیئے۔

سپاہی۔ (س۔ پا۔ ہی) (۱) ذ۔ (۲) فوجی۔ لشکر (۳) (۴) پولیس کا نشیلا۔ سنتری۔

سپاہی کی جو رو۔ جھنڈہ رانڈ۔ (۱) ذ۔ (۲) فوجی ملازمت کرنے والوں کو اپنے گھر پر رہنے کا موقع بہت کم ملتا ہے۔

سپاہی کی روٹی سر نیچے کی۔ (مثل) سپاہی اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر روزی پیدا کرتا ہے۔

سپاہیانہ۔ (رس۔ پا۔ ہ۔ یا۔ نہ) (ن۔ صف) (۱) سپاہی کی طرح (۲) بہادری کے ساتھ۔

سپہلت۔ (رس۔ مدر) سات۔ ہفت۔

سپہت رشی۔ (رس۔ ۱۔ مذ) سات سیلیوں کا چٹھا۔ ڈب البرستوں کی ایک شکل جو مات کے وقت شمال کی طرف نظر آتی ہے۔

سپیر۔ (رس۔ پز۔ ن) (۱۔ مٹ) (۱) ڈھال (۲) آڑ۔ روک (۳) پناہ۔

سپہت (۴) (صف) محافظ۔ مددگار۔ آڑے آنے والا۔

سپرانڈاز۔ (ن۔ صف) (۱) سپہبیکنے والا (۲) مارمانے والا۔

سپرانڈازی۔ (ن۔ ۱۔ مذ) (۱) ہتھیار ڈالنا (۲) مارنا۔

سپیر ہونا۔ (۱۔ محاورہ) آڑے آنا۔ دیوار بن کر کھڑے ہونا۔

سپئر۔ (Supper) (رس۔ پز۔ انگ) (۱۔ مذ) مات کا کھانا۔

سپیرٹ۔ (Spirit) (انگ۔ ۱۔ مٹ) دیکھی اسپرٹ۔ شراب (۲) روح۔ جذبہ۔

سپیرٹیکس۔ (Supertax) (رس۔ پز۔ ٹیکس) (انگ۔ ۱۔ مذ) مزید محصول۔

سپیرڈ۔ (رس۔ پز۔ ن) (۱۔ مٹ) حوالے کیا ہوا۔ سوچنا ہوا۔ امانت۔

تحویل۔ تفویض۔

سپیردخانہ۔ (دفتری اصطلاح) لباس وغیرہ رکھنے کا کمرہ۔

سپیرد خانہ۔ (Cloak Room) کھوک روم۔

سپیرد کرنا۔ (مص۔ مرکب) (۱) قبضے میں دینا۔ حوالے کرنا (۲) امانت رکھنا (۳) حراست میں دینا۔

سپیرد ہونا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) حوالے کیا جانا (۲) تحویل یا قبضے میں دیا جانا۔

سپیردا۔ (رس۔ پز۔ دا) (رس۔ پز۔ دا) (۱۔ مذ) (۱) (۲) سازندے۔

رہنچنے گانے والیوں کے ساتھ ساز جانے والے۔ ڈوم۔

سپیردی (سپرداری)۔ (رس۔ پز۔ ڈ۔ گی) (ن۔ ۱۔ مٹ) (۱) تحویل (۲) حراست۔ حوالات۔ نظر بندی (۳) امانت۔ جو چیز سپرد کی جائے۔

سپیردیگی مال۔ مال سوچنا۔ حوالگی زر۔

سپیردیگی میں لینا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) تحویل یا قبضے میں لینا (۲) حراست میں لینا۔

سپیردم۔ بتو مایہ خویش را کہ دن مقولہ، جب کوئی کام کھتے کسی کے تو دانی حساب کم و بیش را سپرد کیا جائے اس وقت کہتے ہیں:

سپیرڈنڈنٹ (Superintendent) (رس۔ پ۔ رن۔ ٹن۔ ڈنٹ) (انگ۔ ۱۔ مذ) ناظم۔ ناظر۔ داروغہ۔ بہتم۔ نگران۔ محافظ۔

سپیربراہ کار۔

سپیرڈنڈنٹ پولیس۔ (Superintendent Police) (انگ۔ ۱۔ مذ) منتظم پولیس۔ منظر پولیس کا انتظامی افسر۔

سپرنگ۔ (Spring) (انگ۔ مذ) کمانی۔ دیکھی اسپرنگ۔

سپرنگ بید۔ (Spring Bed) (انگ۔ ۱۔ مذ) کمانی دار بنگ۔

سپروانڈر۔ (Supervisor) (رس۔ پز۔ وا۔ نڈر) (انگ۔ ۱۔ مذ) نگران۔

گلبان۔ بہتم۔

سپریم۔ (Supreme) (سپ۔ ریم) (انگ۔ صف) اعلیٰ اختیار رکھنے والا۔ سب سے بڑا۔ بلند ترین۔

سپریم کورٹ۔ (Supreme Court) عدالت العالیہ۔ ملک کی سب سے اعلیٰ عدالت۔

سپر سپر۔ (رس۔ پز۔ س۔ پز۔ نا) (۱۔ مٹ) (۱) کتے کے کھانے پینے کی آواز (۲) ککنا پتیا) بے تیزی سے کھانے کی آواز۔

سپر سپر کر کے کھانا۔ (۱۔ محاورہ) بد تیزی یا بے احتیاطی سے کھانا پینا۔

سپرانٹا۔ (سپ۔ ٹرانٹا) (۱۔ مص) (ق) (۱) گرفتار کرنا۔ پکڑنا (۲) ختم کر دینا (۳) ہٹلانا۔

سپرانٹا۔ (سپ۔ ٹرانٹا) (رس۔ پز۔ جا۔ نا) (۱۔ مص) (۱) گرفتار ہو جانا۔ پکڑا جانا (۲) ختم ہو جانا۔ منحل کرنا۔ نشان کرنا۔

سپتال۔ (رس۔ پس۔ تال) (ن۔ ۱۔ مذ) سوڈا۔ لہسوزا۔

سپیکٹروس کوپ۔ (Spectroscope) (رس۔ پکٹ۔ روس کوپ) (انگ۔ ۱۔ مذ) وہ آلہ جس سے شعاعوں کی تفریق کے ذریعے سے اجرام فلکی کے اجزائے قریبی دریافت کیے جاتے ہیں۔

سپلائی۔ (Supply) (سپ۔ لا۔ امی) (انگ۔ ۱۔ مٹ) [رس۔ ذخیرہ۔ فراہمی۔

سپلک۔ (رسپ۔ نگ) (ق۔ ۱۔ مٹ) چھپکی۔

سپلیمنٹ۔ (Supplement) (سپ۔ لی۔ منٹ) (انگ۔ ۱۔ مذ) ضمیمہ۔ زائد مواد۔

سپین۔ (ق۔ ۱۔ مذ) خواب۔ پینا۔

سپینا۔ (سپ۔ نا) (۱۔ مذ) خواب۔ جو کچھ سوتے میں نظر آئے۔

رویہ (۲) خیال۔ دم۔

سپینڈ۔ (رس۔ پینڈ) (ن۔ ۱۔ مذ) کالا دان۔ حرم۔

سپینڈ۔ (سپ۔ پینڈ) (رس۔ پین۔ ڈا) (۱) پہلا سنکرت دوسرا ہندی

۱۔ مذ [ہندوؤں میں سات پشتوں تک کے رشتہ دار۔

سپوت۔ (رس۔ پوت) (۱۔ مذ) سعادت مندا فرماں بردار بیٹا۔ لائق بیٹا۔ فرزند رشید۔ اچھا لڑکا۔

سپوتوں کے سپوت اور کپوتوں کے سپوت۔ (مثل) بڑوں کے ہاں نیک اور نیکیوں کے ہاں بد اولاد ہوتی ہے۔

سپوتی۔ (رس۔ پوت۔ تی) (۱۔ مٹ) (۱) نیک اولاد والی عورت (۲) سات بیٹیوں والی۔

سپوتی رووے ٹوکوں کو ہنپوتی رووے پوتوں کو۔ (مثل) (۱) اولاد والی روٹی کے ٹوکوں کے لیے ہوتی ہے۔ بے اولاد والی اولاد کے لیے ہوتی ہے (۲) انسان کو کسی حال میں قناعت نہیں۔ ہر لاش کو کوئی نہ کوئی شکایت ہے۔

سپورٹس۔ (Sports) (رس۔ پورٹس) (انگ۔ ۱۔ مذ) کھیل۔ تفریح۔

سپورٹس۔ (سپ۔ پورٹس) (رس۔ پورٹس) (انگ۔ ۱۔ مذ) کمانی دار بنگ۔ تمام۔ کل (۲) بھر پور (۳) (۱۔ مذ) پورا چاند۔

سپولیا۔ (س۔ پول۔ ل۔ یا)۔ (ذ۔)۔ (ہ۔)۔ (ذ۔)۔ (ا۔)۔ (ب۔)۔ (ج۔)۔ (د۔)۔
 رسپتہ۔ (س۔)۔ (پ۔)۔ (ذ۔)۔ (ا۔)۔ (م۔)۔ (سپاہ کا تختہ)۔ فوج۔ لشکر۔
 رسپتہ سالار۔ (ذ۔)۔ (ہ۔)۔ (ذ۔)۔ (ا۔)۔ (م۔)۔ (ذ۔)۔ (ا۔)۔ (ب۔)۔ (ج۔)۔ (د۔)۔
 رسپتہ گری۔ (ذ۔)۔ (ا۔)۔ (م۔)۔ (سپاہی کا کام یا پیشہ)۔
 رسپتہ۔ (س۔)۔ (پ۔)۔ (ذ۔)۔ (ا۔)۔ (ذ۔)۔ (آسمان)۔
 رسپتہ۔ (ذ۔)۔ (ا۔)۔ (م۔)۔ (تیسرا پہر)۔
 رسپتہ۔ (س۔)۔ (ص۔)۔ (پھلدار)۔ (ثردار)۔ (۲)۔ نفع دینے والا (۳)۔ کامیاب
 میند۔ ماہر (۴)۔ مہنگ۔
 رسپتہ۔ (Speech) (س۔)۔ (پ۔)۔ (ذ۔)۔ (ا۔)۔ (م۔)۔ (تقریر)۔ لیکچر۔
 رسپتہ۔ بیان۔
 رسپتہ۔ رسپتہ۔ (س۔)۔ (پ۔)۔ (ذ۔)۔ (ا۔)۔ (م۔)۔ (ص۔)۔ (۱)۔ (م۔)۔ (ا۔)۔ (ب۔)۔ (ج۔)۔
 ایضاً (۲)۔ گورا۔ صبح (۳)۔ گورا۔ پن لکھا۔
 رسپتہ و سیاہ کا اختیار۔ (۱)۔ (م۔)۔ (ذ۔)۔ (ا۔)۔ (ب۔)۔ (ج۔)۔ (د۔)۔ (ہ۔)۔
 رسپتہ۔ رسپتہ۔ (س۔)۔ (پ۔)۔ (ذ۔)۔ (ا۔)۔ (م۔)۔ (ذ۔)۔ (ا۔)۔ (ب۔)۔ (ج۔)۔ (د۔)۔
 رسپتہ دم۔ (ذ۔)۔ (ا۔)۔ (ص۔)۔ (صبح کا وقت)۔ نورا کا ڈاکا۔
 رسپتہ مسخری (صبح)۔ (ذ۔)۔ (ا۔)۔ (ص۔)۔ (دھ آجالا جو طلوع آفتاب سے
 پہلے ہوتا ہے)۔
 رسپتہ۔ (س۔)۔ (پ۔)۔ (ذ۔)۔ (ا۔)۔ (م۔)۔ (۱)۔ (ب۔)۔ (ج۔)۔ (د۔)۔ (ہ۔)۔
 کو دیواروں پر پھیر کر تعلق کرتے ہیں (۲)۔ روشنی۔ آجالا۔
 جوت۔ نور۔
 رسپتہ آٹا۔ (۱)۔ (م۔)۔ (ذ۔)۔ (ا۔)۔ (ب۔)۔ (ج۔)۔ (د۔)۔ (ہ۔)۔
 رسپتہ۔ (Speed) (س۔)۔ (پ۔)۔ (ذ۔)۔ (ا۔)۔ (م۔)۔ (۱)۔ (ب۔)۔ (ج۔)۔
 رسپتہ میسر۔ (Speedometer) (ا۔)۔ (ب۔)۔ (ج۔)۔ (د۔)۔ (ہ۔)۔
 گاڑی وغیرہ کی رفتار بتانے والی آلہ رفتار پیمائش۔
 رسپتہ۔ (س۔)۔ (پ۔)۔ (ذ۔)۔ (ا۔)۔ (ب۔)۔ (ج۔)۔ (د۔)۔ (ہ۔)۔
 دکھانے والا۔
 رسپتہ۔ (Special) (ا۔)۔ (ب۔)۔ (ج۔)۔ (د۔)۔ (ہ۔)۔
 سپر بیٹر۔ (Superior) (ا۔)۔ (ب۔)۔ (ج۔)۔ (د۔)۔ (ہ۔)۔
 رسپتہ۔ (Specialist) (ا۔)۔ (ب۔)۔ (ج۔)۔ (د۔)۔ (ہ۔)۔
 اسپیکر۔ (Speaker) (مقرر)۔ پارلیمان کا صدر۔ دیکھئے اسپیکر۔

س۔ ت

سنت۔ (ذ۔)۔ (ا۔)۔ (ب۔)۔ (ج۔)۔ (د۔)۔ (ہ۔)۔ (ذ۔)۔ (ا۔)۔ (ب۔)۔ (ج۔)۔ (د۔)۔ (ہ۔)۔
 (۲)۔ ایمان۔ دھرم۔ یقین (ص۔)۔ (ج۔)۔ (ص۔)۔ (د۔)۔ (ر۔)۔ (د۔)۔ (ب۔)۔
 (۴)۔ کھرا۔ سچا۔
 سنت بادکی۔ (۱)۔ سچائی یا صداقت کو مذہب یا اصول کے طور پر ماننے
 والا (۲)۔ سچا آدمی۔ صادق القول۔

ست ماسا - (۱۰۰- صف) (۱) وہ بچہ جو ساتویں مہینے پیدا ہو (۲) وہ دم جو پہلے حمل کے ساتویں مہینے کی جاتی ہے۔
 ست منزل - (۱- مذ) سات منزل کا مکان۔ ست کھنڈا۔
 ست ناچا۔ ست نجا۔ (۱- مذ) (۱) سات قسم کے طے ہوئے اناج۔ سات قسم کا بھٹا جو غلہ (۲) ہلا کر پکائے ہوئے سات اناج۔ (۳) (صف) گڈ گڈ (۴) دوغلا۔ مخلوط۔
 ست ہارا اور گیا۔ (۱- مثل) جس نے ہمت ہار دی وہ مارا گیا۔
 ست - (۱- مذ) تراکا۔ پیشا۔ پوت۔
 ستا - (س۔ تا۔ ۱- صف) (۱) لڑکی۔ بیٹی (۲) جتن (رق)۔
 ستا - (س۔ تا۔ ۱- مذ) (۱) تاش کا وہ پتہ جس پر سات نشان ہیں۔ (۲) پلسے کے سات جھتے (۳) بپسی کی وہ سات کوڑیاں جو چت پڑیں۔
 ستار - (س۔ تار۔ ۱- مذ) طنز سے کسی قسم کا ایک باجہ (شروع میں اس میں صرف تین تار ہوتے تھے اس لیے ستار (ستار) کہلا یا۔
 ستار باز۔ (ف۔ ۱- مذ) ستار بجانے والا۔ ستار یا۔
 ستار چھیرنا۔ (۱- محاورہ) ستار کے تاروں سے آوازیں پیدا کرنا۔
 ستار۔ (س۔ تار۔ ۱- صف) (۱) چھپانے والا۔ ڈھانپنے والا۔ پردہ پوش (۲) خدا تعالیٰ کا ایک صفاتی نام۔
 ستار نیوٹ۔ (س۔ ۱- صف) (۱) بیوں کو ڈھانپنے والا (خدا تعالیٰ) (۲) ستار۔ ستارہ۔ (س۔ تا۔ ۱- مذ) (۱) تارا ان سائے اور روشن کر توں میں سے ایک کہ جو رات کو آسمان پر چمکتے دکھائی دیتے ہیں۔ نجم۔ کوکب (۲) قسمت۔ نصیب۔ تقدیر۔ اقبال۔ (۳) چاندی دینار کے وہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے، جو جو توں کو پیوں اور چوڑوں وغیرہ پر لگانے جاتے ہیں (۴) نجوم۔ راس۔ برج۔ (۵) ٹیکا۔ نشان۔ سفید دھبہ جو گھوڑے کے ماتھے پر ہو (۶) ایک قسم کی آتش بازی (۷) بندوق کی ٹپنی کا گول سفید جھتے (۸) انشان کے گول گول چمک دار ٹکڑے (۹) گلے کے ایک زینہ (زنجیر) کے گول گول چمک دار ٹکڑے۔ جی۔ ستارگان۔
 ستارہ اچھا ہونا۔ (۱- محاورہ) (۱) خوش نصیب ہونا۔ مقدر اچھا ہونا۔ اقبال مند ہونا (۲) خوشحالی اور کامیابی کا زمانہ ہونا۔
 ستارہ اونچ پر ہونا۔ (۱- محاورہ) (۱) اقبال مندی کا دور ہونا (۲) کامیابی اور کامیابی حاصل ہونا۔
 ستارہ برگشتہ ہونا۔ (۱- محاورہ) مقدر کا خلاف ہونا۔ بد نصیبی کا زمانہ ہونا۔
 ستارہ بلند ہونا۔ (۱- محاورہ) خوش نصیب ہونا۔ طالع مند ہونا۔ اقبال کا یاد ہونا۔
 ستارہ پیشانی۔ ستارہ جیس۔ (ف۔ صف) گھوڑا جس کے ماتھے پر ناخن کے برابر سفید ٹیکا یا دھبہ ہو۔ ایسا گھوڑا خوش خیال کیا جاتا ہے۔
 ستارہ چمکانا۔ (۱- محاورہ) (۱) دن پھرنا۔ نصیب جاگنا۔ قسمت اچھی ہونا۔
 ستارہ دم دار یا دنبالہ دار۔ (ف۔ ۱- مذ) وہ ستارہ جس کے پیچھے لمبی سی دم ہوتی ہے۔
 ستارہ سازگار ہونا۔ (۱- محاورہ) قسمت یاد ہونا۔

ستارہ سحری۔ (ف۔ ۱- مذ) صبح کا ستارہ۔ دن نکلنے کی علامت۔
 ستارہ شناس۔ (ف۔ ۱- مذ) بخوبی۔ اختر شناس۔
 ستارہ گردش میں ہونا۔ (۱- محاورہ) ادا کار کا زمانہ ہونا۔ برسے دن ہونا۔
 تخت طاری ہونا۔
 ستارہ رطبا۔ (۱- محاورہ) (۱) دو شخصوں کی راسوں یا تاروں کے خواص ایک جونا (۲) طبیعتیں رطبا، موافقت ہونا۔
 ستارے بھاری ہونا۔ (۱- محاورہ) موس ستاروں کا اثر ہونا۔
 ستاری۔ (س۔ تا۔ ۱- صف) (۱) ستاروں کے پاس ہوتا ہے۔
 ستار یا۔ (س۔ تا۔ ۱- صف) (۱) ستار بجانے والا۔
 ستاسی۔ (س۔ تا۔ ۱- صف) (۱) ستی اور سات۔ ۸۷۔
 ستال۔ (س۔ تا۔ ۱- صف) (۱) لینے والا (۲) مذ۔ جگہ۔ موقع۔
 مقام۔ سرگت میں لائق کے طور پر آتا ہے۔ جیسے دل ستان۔ گلستان۔
 ستانا۔ (س۔ تا۔ ۱- صف) (۱) تنگ کرنا۔ دق کرنا (۲) تکلیف پہنچانا۔
 ڈکھ دینا۔ آزار دینا۔
 ستانوسے۔ (س۔ تا۔ ۱- صف) (۱) ستے اور سات۔ ۹۷۔
 ستاور۔ (س۔ تا۔ ۱- صف) (۱) ایک دو کا نام جو ذریعہ لاتی ہے۔
 ستاون۔ (س۔ تا۔ ۱- صف) (۱) سات اور پانچاس۔ ۵۷۔
 ستاش۔ (س۔ تا۔ ۱- صف) (۱) ستا۔ ستا۔
 ستاش گر۔ (ف۔ صف) (۱) ستا۔ ستا۔
 ستاؤ۔ (س۔ تا۔ ۱- صف) (۱) ستا۔ ستا۔
 ستائیس۔ (س۔ تا۔ ۱- صف) (۱) ستا۔ ستا۔
 ستتر۔ (س۔ تتر۔ ۱- صف) (۱) ستتر اور سات۔ ۷۷۔
 ست جاننا۔ (س۔ تا۔ ۱- صف) (۱) سترا۔ سترا۔
 ستد۔ (ف۔ ۱- صف) (۱) ست۔ ست۔
 ستتر۔ (س۔ تا۔ ۱- صف) (۱) ستتر اور سات۔
 ستتر عورت۔ (۱) مرد یا عورت کے بدن کا وہ حصہ جس کا کھولنا معیوب ہے۔ (۲) اس جھتے کا چھپانا جس کا دکھانا باعث شرم ہے۔
 ستتر۔ (س۔ تتر۔ ۱- صف) (۱) ستات دلیلیاں۔ ستتر۔ ۷۰۔
 ستتر سے (عدد کثرت)۔
 ستتر دو بہتر۔ (۱- صف) (۱) بہت سارے۔ کثیر۔
 ستتر ہو سے کھاکے بلی ج کو چھلی۔ (۱- مثل) اس شخص پر کہتے ہیں کہ جو ساری عمر گناہ کرنے کے بعد آخر میں توبہ کرے۔
 ستتر ستانا۔ (۱- محاورہ) بہت بڑا بھلا کرنا۔ بہت کامیاب دینا۔
 ستتر کان بہتر بھول۔ (۱- مثل) خواب بٹلے ہوئے گڑھے کی مذمت۔
 ستتر گز کی پلڑی اور سر ننگا۔ (۱- مثل) امیر ہونے کے باوجود تنگی سے رہنا۔

پڑتا۔ ایک ہی دفعہ پانچ معلوم مقداروں کے ذریعے نامعلوم مقدار دریافت کر لیتے ہیں۔
 سٹھان۔ (س۔ تھان) (دہ۔ ا۔ مذ) مکان۔ جگہ۔ مقام (۲) ٹھہرنے یا رہنے کی جگہ۔
 سٹھرا۔ (سٹھ۔ را) (دہ۔ صف) (۱) پاک صاف۔ پاکیزہ۔ اُجلا۔ بے داغ۔ (۲) نفیس۔ عمدہ۔ اچھا (۳) (مذ) ایک قسم کے فقیر بو ڈنڈے جاکر مانگتے ہیں۔
 سٹھرا شاہی۔ (دہ۔ ا۔ مٹ) سٹھرا شاہ نامی فقیر کا پیلا (اس گروہ کا فقیر جو ڈنڈے جاکر بند کی ساتھ مانگتا پھرتا ہے)۔

سٹھرا نا۔ (سٹھ۔ را۔ نا) (دہ۔ مص) (۱) پھیلا نا (۲) تتر بتر ہونا۔ پرانگندہ کرنا۔ بکھیرنا۔
 سٹھراؤ۔ (سٹھ۔ را۔ او) (دہ۔ ا۔ مذ) (۱) تھیل عام۔ معنایا۔ لاشوں کے ڈھیر (۲) بہت سی عمارتوں کا گہر پڑنا۔

سٹھراؤ (کرنا) ہونا۔ (۱) عمارتوں کے ڈھیر لگا دینا یا لگانا۔ کشتوں کے پٹنے لگا دینا یا لگانا (۲) عمارتوں کو توڑ پھوڑ دینا، اینٹ سے اینٹ بجا دینا (بجنا)۔

سٹھرائی۔ (سٹھ۔ را۔ ای) (دہ۔ ا۔ مٹ) (۱) صفائی۔ اُجلا پن (۲) خوش فانی۔ نفاست (۳) ڈار (جھاڑو۔ پیارو۔

سٹھرائی پھیرنا۔ (۱) محاورہ (۱) ٹوٹ کر لے جانا (۲) جھاڑو دینا۔
 سٹھرائی دینا۔ جھاڑو دینا۔ جھاڑو بہا رو دینا۔
 سٹھری۔ (دہ۔ مٹ) سٹھرا کی تائینٹ۔ صاف۔ نکھری ہوئی۔ اُبل۔ پاک۔
 سٹھن۔ سٹھنا۔ سٹھنی۔ (سٹھ۔ مٹن) (سٹھ۔ نا) (سٹھ۔ نی) (دہ۔ ا۔ مذ) مٹ (۱) پا جاہر۔ راز۔ شکار۔

سٹھیا۔ سٹیا۔ (سٹھ۔ یا) (سٹ۔ یا) (دہ۔ ا۔ مذ) آنکھوں کا حکم۔
 سٹی۔ (س۔ ٹی) (دہ۔ ا۔ مٹ) ہندوؤں میں مردہ شوہر کے ساتھ عورت کے جل مرنے کی رسم (۲) پاک دامن یا با عصمت عورت (۳) وہ عورت جو سستی ہو جائے۔

سٹی سٹ پیر ہونا۔ (۱) محاورہ (۱) مرنے کے قریب ہونا۔ جاں بلب ہونا (۲) کسی تکلیف کے باعث ہلاکت میں پڑنا۔
 سٹی ہونا۔ (۱) محاورہ (۱) ہندوؤں میں شوہر کی نعش پر عورت کا جل مرنا۔ (۲) جان دینا۔ جان قربان کرنا۔

سٹیا۔ (سٹ۔ تیا) (رق) قوت۔ طاقت۔
 سٹیا ناس۔ (سٹ۔ ت۔ یا۔ ناس) (دہ۔ ا۔ مذ) تباہی۔ بربادی۔
 سٹیا ناس ہو جائے۔ (بددعا) برباد ہو جائے۔ تباہ ہو جائے۔
 سٹیا ناس کرنا۔ (۱) محاورہ (۱) تباہ و برباد کرنا۔ اُچھاڑنا (۲) بگاڑنا۔ خراب کرنا۔ خاک میں ملانا (۳) آوارہ یا بدیل بنانا (۴) ڈھانا۔ گرانا۔
 سٹیا ناس ہونا۔ (۱) محاورہ (۱) تباہ ہونا۔ مٹ جانا (۲) کام بگڑنا۔ (۳) ڈھایا جانا۔

سٹیا ناسی۔ (سٹ۔ ت۔ یا۔ ناسی) (دہ۔ ا۔ مٹ) (۱) ایک عمارت درخت جس کے پھول کے اندر کے دانے خارش کے لیے مفید ہیں (۲) (صف)

برباد کرنے والا۔ اُچھاڑنے والا۔ (۳) بدیل (۴) نحوس۔
 سٹیا ناسی کی جڑ۔ (دہ۔ ا۔ مٹ) بربادی کا سبب۔ تباہی کا ذریعہ۔
 سٹیا۔ (سٹ۔ تیا) (س۔ ا۔ مذ) زور۔ بل۔ قوت۔ طاقت۔
 سٹیدہ۔ (س۔ صف) سچا۔ صادق (۲) تحقیق۔ غلصہ۔ دیانت دار۔ دنا دار۔
 سٹیا۔ (سٹ۔ تیا) تصدیق کیا ہوا۔ سچائی۔
 سٹیدہ اگر (گرہ)۔ (دہ۔ ا۔ مٹ) سچا جہد حکومت کے خلاف پرائس تحریک۔
 سٹیا نو۔ (سٹ۔ یا۔ نو) (رق) ستارے۔
 سٹینز۔ (سٹینز۔ ا۔ س۔ تیز) (س۔ تے۔ ڈہ) (ف۔ ا۔ مذ) لڑائی جھگڑا۔
 سٹینزہ کار۔ (ف۔ صف) لڑنے والا۔ جنگی آدمی۔ جھگڑالو۔

س۔ ٹ

سٹ۔ (دہ۔ ا۔ مٹ) (۱) سازش (۲) تدبیر۔ ڈھب (۳) ناجائز تعلق۔
 آشنائی (۴) میل جول۔ آٹ سٹ۔
 سٹ لڑانا۔ (۱) محاورہ (۱) سازش کرنا (۲) مارا مار کرنا۔ آشنائی کرنا۔

سٹ (سٹ)۔ (Set) (واگ۔ ا۔ مذ) (۱) یکساں قسم کی چیزوں کا مترہ مجموعہ۔
 سٹا۔ (سٹ۔ ٹا) (دہ۔ ا۔ مذ) (۱) تحریری اقرار نامہ جس کی رو سے زراعتی پیداوار میں شرکت قائم ہوتی ہے (۲) بیو بار کا سودا (۳) ایک قسم کا جو۔ جس میں کسی بات کے متعلق حکم لگانے پر شرطیں کی جاتی ہیں۔

سٹا بٹا۔ (دہ۔ ا۔ مذ) (۱) ساز باز۔ سازش (۲) فریب۔ دغا۔ کمرونی۔
 سٹا ہی۔ (دہ۔ ا۔ مٹ) وہ بھی جس میں سٹے لکھے جاتے ہیں۔
 سٹے بٹے لڑانا۔ (۱) محاورہ (۱) سازش کرنا۔ سازشی کارروائی کرنا۔
 سٹے باز۔ (۱) شاکھیلے والا (۲) چالاک۔ فریبی (۳) جھوٹا۔
 سٹے بازی۔ (۱) سٹے کا جو اُکھلنا (۲) چالاک۔ فریب۔
 سٹا۔ (سٹ۔ ٹا) (دہ۔ ا۔ مذ) چٹھا (جو ارکا خوشہ)۔

سٹا برمی۔ (Strawberry) دیکھے اٹا برمی۔
 سٹاپ پریس۔ (Stop Press) (س۔ ٹاپ۔ پ۔ ریس) (واگ۔ ا۔ مذ) وہ خبر جس کو اخبار چھپنے میں آخر وقت شمل کی جائیں۔

سٹار۔ (Star) ستارہ۔ دیکھے اٹار۔
 سٹارٹ۔ (Start) دیکھے اٹارٹ۔
 سٹارچ۔ (Starch) (س۔ ٹارچ) (واگ۔ ا۔ مذ) نشاستہ۔ کف۔ مادہ۔

سٹاسٹ۔ (س۔ ٹا۔ سٹ) (دہ۔ ا۔ مٹ) (۱) لگاتار۔ پہلے درپے (۲) برابر کوڑے پڑنے کی آواز۔ چیمیاں مارنے کی آواز۔

سٹاف۔ (Staff) (س۔ ٹاف) (واگ۔ ا۔ مذ) (۱) اہل کاروں کی جماعت یا عملہ (۲) افسروں کی فوجی جماعت جو صدر مقام پر اعلیٰ کان کے ماتحت ہوتی ہے (۳) لاکھی۔ ڈنڈا۔ عصا۔
 سٹاک۔ (Stock) (س۔ ٹاک) (واگ۔ ا۔ مذ) ذخیرہ۔ تجارتی مال کا

اُنگلیاں زمین پر لگتی ہیں۔
 مسجد سہو۔ (س۔ ا۔ مذ) وہ دوسرے جو نماز میں کسی واجب کے کم یا زیادہ ہو جانے پر کیے جاتے ہیں۔
 مسجد شکر۔ (س۔ ا۔ مذ) وہ مسجد جو خدا کے حضور کسی بات کے شکرانے کے لیے کیا جائے۔
 مسجد شکر بجالانا۔ (ا۔ مادہ) خدا کے حضور میں شکر کا مسجد ادا کرنا۔
 مسجد کرنا۔ (ا۔ مادہ) ماتھا زمین پر ٹیکنا۔ سر جھکانا۔ ڈنڈوت کرنا۔
 مسجد گاہ۔ (س۔ ا۔ مذ) مسجد کرنے کی جگہ (۲) خاک شفا کی گول ٹیکیا جس پر شہد سر رکھ کر مسجد کرتے ہیں۔
 مسجد گزار۔ (س۔ ف۔ ص) مسجد کرنے والا عبادت گزار۔

سجیر یا۔ (ن۔ ا۔ مذ) بچھونا۔
 سبج۔ (س۔ ہی۔ ن۔ مذ) (۱) خوش الحان پرندوں کی چھبھاٹ (۲) دو فقروں کے آخر الفاظ کا ہم قافیہ ہونا (۳) ایسا موزوں فقرہ یا مصرعہ جس کے کچھ ظاہری معنی بھی ہوں اور اس میں کسی شخص کا نام بھی آجائے۔ جیسے محمد کالے کے نام کا سبج ہے۔ ہر دم نام محمد کالے۔ جمع: اسباج۔
 سبج متوازن۔ دو لفظوں کے وزن اور اعداد حرف میں موافقت مگر ردی میں مخالفت جیسے آفاق و آباد۔ مطلب و ربط۔
 سبج متوازی۔ دو لفظوں کے حرف ردی و وزن اور اعداد حرف میں موافقت جیسے وطن و زمین۔ مبار و نگار۔

سبج معترف۔ دو لفظوں کے حرف ردی میں موافقت، مگر اعداد و وزن میں مخالفت۔ جیسے انہار و باربار۔ عنوان و جان۔
 سبج (س۔ ہیل۔ م۔ ص) عمدہ۔ نفیس۔ صاف (۲) شرعی حکم نامہ (۳) دستاویز۔ رجسٹری (۴) قاضی کی بئر۔
 سبجن۔ (س۔ جن۔ م۔ مذ) (۱) معزز۔ نیک۔ بھلا ناس۔ اچھا (۲) خاندان شوہر (۳) دوست۔ رفیق (۴) مستحق۔ دلبر۔
 سجن سکارے جمائیں گے اور زمین میں گھرو (۲) مش بڑے خاندان کے لیے بدھنا ایسی رین کو بھور کبھی نہ ہو جانے چلا جانا ہے۔ خدایا اس بات کو اتنا لیا کر دے کہ اس کا دن ہی دپڑھے۔

سجن۔ (س۔ ا۔ مذ) قد خانہ۔ جیل خانہ۔
 سجننا۔ (س۔ ج۔ م۔ م۔ ص) (۱) زب دینا۔ موزوں ہونا (۲) بننا۔ سنورنا۔ سنگار کرنا (۳) تیار ہونا (۴) اے سجن۔
 سجنجلی۔ (س۔ جن۔ ج۔ م۔ مذ) (۱) آئینہ (۲) عینک (۳) گھلا ہوا سونا چاندی (۴) زعفران (۵) صفت [خالص۔ صاف۔
 سجنجی۔ (س۔ ج۔ ن۔ م۔ ص) (۱) سنگتی۔ سہیلی۔ بہیلی (۲) عشوقہ۔
 سجد۔ (س۔ ج۔ ن۔ م۔ ص) (۱) سجدہ کی جمع۔ سجدے۔
 سجدھانا۔ (س۔ جھ۔ نا۔ م۔ ص) آگاہ کرنا۔ جتانا۔ دکھانا۔ بتانا۔
 سجھانی دینا۔ (س۔ جھ۔ ای۔ م۔ ص) (۱) نظر آنا۔ معلوم ہونا (۲) خیال میں آنا۔
 سچی۔ (س۔ ج۔ ہی۔ م۔ ص) (۱) سچی۔ (۲) سچی۔ (۳) ایک قسم کے کھار کا نام جو کپڑے دھونے کے

سٹیل۔ (Steel) فولاد۔ لوہا۔
 سٹیم۔ (Steam) بھاپ۔
 سٹیم انجن۔ (Steam Engine) بھاپ سے چلنے والا انجن۔
 سٹیم بوٹ۔ (Steam Boat) بھاپ سے چلنے والی کشتی۔
 سٹیمبر۔ (Steamer) دکان بھاپ۔
 سٹینڈرڈ۔ (Standard) (س۔ ٹین۔ ڈرڈ) (انگ۔ ص) (۱) مستند۔ مانا ہوا (۲) معیار۔ درجہ۔
 سٹینسل۔ (Stencil) (انگ۔ م۔ مذ) ایک قسم کا سارا لگا ہوا کاغذ جس پر لیسے کے نم سے لکھا جاتا ہے تو حرف اُبھرتے ہیں اس کاغذ کو مشین پر پڑھا کر پھیلائی کی جاتی ہے۔
 سٹینوگرافر۔ (Stenographer) (س۔ ٹے۔ نوگ۔ را۔ ف) (انگ۔ ا۔ مذ) مختصر نویس۔

س۔ ج

سج۔ (س۔ م۔ م۔ ص) (۱) آرائش۔ زیب و زینت۔ خوب صورتی۔ سجاوٹ۔ سنگار۔ (۲) انداز۔ روش۔ شکل۔ وضع۔
 سج دیج۔ (س۔ م۔ م۔ ص) (۱) شان و شوکت۔ آں بان۔ نمود و نمائش (۲) بناؤ سنگار زیباش و آرائش (۳) صورت۔ شکل۔ وضع۔ قطع۔ رنگ۔ روپ۔
 سجا۔ (س۔ ج۔ م۔ م۔ ص) [۱] سیدھا۔ دایاں۔ دایبنا (۲) سیدھا آٹھ۔
 سجات۔ (ن۔ ص) نیک ذات۔
 سجاتا۔ (س۔ ج۔ م۔ م۔ ص) (۱) سجدہ کرنے والا۔ پرستش کرنے والا۔
 سجاتا۔ (س۔ ج۔ م۔ م۔ ص) (۱) مذ (۲) مشقی۔ جانا نماز (۲) پیریا بزرگ کی گدھی۔ حج۔ سجادگان۔
 سجاتا نشین۔ (س۔ ف۔ ص) کسی بزرگ یا پیر فقیر کا جائتین۔
 سجاتا نشین ہونا۔ (ا۔ مادہ) کسی بزرگ یا پیر کی گدھی پر بیٹنا۔ خلیفہ کا منصب لینا۔
 سجاتا سجاتا۔ (س۔ ج۔ م۔ م۔ ص) (یا۔ م۔ ص) آراستہ پیراستہ۔
 سجاتا۔ (س۔ ج۔ م۔ م۔ ص) (۱) منہ دیکھتے سن جات۔ جوڑی پٹی۔
 سجاتا۔ (س۔ ج۔ م۔ م۔ ص) (۱) عالم۔ واقف کار (۲) دانا۔ دانش مند۔ (۳) ہوشیار۔ عیار۔ آفتوں کا ٹھیکیت۔
 سجاتا۔ (س۔ ج۔ م۔ م۔ ص) (۱) آراستہ کرنا۔ ترتیب سے لگانا (۲) سنگار کرنا۔

سجاتا۔ (س۔ ج۔ م۔ م۔ ص) (۱) درم کر دینا (۲) پھلا دینا۔ سوجنا۔
 سجاتا۔ (ن۔ ص) (۱) سجدہ دار۔ بنیم۔
 سجاتا۔ (س۔ ج۔ م۔ م۔ ص) (۱) آرائش۔ آرائش۔ زیبائش۔ بناؤ سنگار۔ زیب و زینت (۲) سج دیج۔
 سجاتا۔ (س۔ ج۔ م۔ م۔ ص) (۱) پیشانی زمین پر ٹیکنا۔ سر جھکانا۔ خدا کے آگے سر جھکانا۔ نماز کا ایک رکن جس میں ماتھا، ناک، گہنیاں، گھٹنے اور

کام آتا ہے۔

سچیلہ - (س۔ جی۔ لا۔) ۱۰ صفت (لا) بنا ٹھنا پھسیلا۔ بانکا۔ خوش وضع (۱۷) آراستہ و پیراستہ۔ سجا سبایا۔
بچھین - (سج۔ جبین) ۱۰ سج - ۱۔ مذ [دوزخ کی ایک گھاٹی۔

س - سج

سج - ۱۔ صفت (۱۱) صبح۔ درست۔ حق۔ ٹھیک۔ راست۔ واقعی۔ حقیقتاً (۱۳)
لاں (۱۴) ۱۱ صفت (۱۱) سچا۔ سچائی۔

سج بات کڑوی لگتی ہے - (۱۰) سچ، بات کہنا اکثر لوگوں کو ناگوار گزرتا ہے۔

سج بولنا آدمی لڑائی سُول لینے ہے - (۱۱) سچ، یہی بات لوگوں کو پسند نہیں آتی۔

سج بچھو پر پچھیے - (۱۰) متعلق فعل (حقیقت میں واقعی۔

سج سچ جس میں ذرہ برابر جھوٹ نہ ہو۔ ٹھیک ٹھیک۔ راست راست۔

سج کا زمانہ نہیں - (۱۰) بقول آج کل یہی بات سُنے کو کوئی تیار نہیں بھوٹ کا دور دورہ ہے۔

سج کہنا اور سچھی رہنا - (۱۰) سچ بول کر انسان کو سکون ملتا ہے۔

سج کے سو مارا جائے - (۱۰) سچ، یہی بات کہنے والا نقصان اُٹاتا ہے۔

سج سچ - (۱۰) متعلق فعل (واقعی۔ فی الحقیقت۔ دراصل۔

سج ہے - (۱۰) محاورہ (بے شک۔ بجا ہے۔ درست ہے۔

سج ہے عمر اڑا دے کی کسی دراز ہے - (۱۰) سچ، بڑا آدمی مدت تک مزے اُٹاتا ہے اور دیگر زندہ رہتا ہے۔

سچا - (سج۔ چا) ۱۰ صفت (۱۰) سچ بولنے والا۔ راست گو (۱۷) راست باز۔ ٹیکہ کر دار (۱۳) درست۔ ٹھیک (۱۴) کھڑا۔ اصل۔ خالص۔ بے گھوٹ۔

سچا بیوی دار - (۱۰) مذ (۱۰) سچا کاروبار (۱۷) صحیح معاطہ۔ کھرا حساب کتاب۔

سچا پن - (۱۰) مذ (۱۰) راست بازی۔ دیانت داری (۱۷) راست گوئی (۱۳) وفا داری۔

سچا جانے روتا آئے، جھوٹا جانے جھنٹا آئے - (۱۰) سچا آدمی اپنا نقصان کر لیتا ہے۔ جھوٹے اپنا کام بنائے ہیں۔

سچا جوڑا - (۱۰) مذ، کمرے کام کا جوڑا۔ جوڑے یا کپڑوں یا چوڑیوں کا ایسا جوڑا جس میں پچھے تار تار سے اور تیش و نیزہ لگے ہو۔

سچا سوتلی - (۱۰) مذ، اصلی سوتلی۔

سچا ہاتھ - (۱۰) مذ، لین دین یا معاملے کا کھرا پن۔ دیانت داری۔ سچے مرگے جھوٹوں کو تپ بھی نہیں آتی۔ دہش، دنیا میں پتوں کو ہی نقصان پہنچتا ہے۔ جھوٹ بولنے والوں کو نہیں پہنچتا۔

سچائی - (س۔ چا۔ ای) ۱۰ صفت (۱۱) صداقت (۱۷) راستی۔ دیانت داری۔ ایمان داری۔

سچکنا - (س۔ ح۔) مزہ دنگ کرنا۔ گھبرانہ (۱۷) حیران ہونا۔

سچیل - (۱۰) صفت (اصلی) ٹھیک۔ درست۔

سچیلہ - (۱۰) صفت (سچا۔ حقیقی۔

سچیت - (س۔ چیت) ۱۰ صفت (۱۱) ماہر۔ خبردار (۱۷) مستوفیہ (۱۳) پُراسن۔ تالخ (۱۲) منط۔

سچستی - (س۔ ہے۔ تی) ۱۰ صفت (۱۱) ہوشیاری۔ متعلندی (۱۷) دھیان - (۱۳) اعتیاد۔

سچی - (س۔ چ۔ ہی) ۱۰ صفت (۱۱) راست باز۔ صادقہ (۱۷) کھری۔ بے میل۔

سچی تولی - ہلاری تولی۔

سچیں سچیں - (۱۰) سچ سچ۔

س - ح

سحاب - (س۔ حاب) ۱۰ صفت (۱۱) بادل - اُڑ - گھٹا (۱۷) وضاحت کی اصطلاح (ستاروں کا دھندلا گچھا - (Galaxy) دھند۔ سدیم۔

سحر - (س۔ ح۔) ۱۰ صفت (۱۰) سحر - سحر - سحر - سحر۔

سحر پکڑنا - (۱۰) محاورہ (سحر پکڑ کر زندہ رہنا (۱۷) سحر کرنا۔

سحر نینز - (۱۰) صفت (۱۰) صبح سویرے اُٹھے والا۔ صبح اُٹھنے کا عادی۔

سحر گاہ - (۱۰) صفت (۱۰) صبح سویرے۔ صبح البصر۔

سحر گاہی - (۱۰) صفت (۱۰) صبح کے وقت کی۔

سحر گہی - (۱۰) صفت (۱۰) صبح کے وقت کی (۱۷) رمضان کے پہینے میں رات کے پچھلے پہر کا گھنا جو دن میں روزہ رکھنے کی نیت سے کھاتے ہیں۔

سحر ہو جانا - (۱۰) محاورہ (۱۱) صبح ہو جانا (۱۷) خاتمہ ہو جانا۔ ترکی تمام ہو جانا۔

سحر - (۱۰) صفت (۱۰) صحت - افسوں - طلسم۔

سحر آگین - (۱۰) صفت (۱۰) جادو پھرا یا جادو بھری۔

سحر آمیز - (۱۰) صفت (۱۰) وہ کام جو سحر کرے۔ مریخ۔

سحر بیان - (۱۰) صفت (۱۰) جادو بیان۔ خوش بیان جس کی تقریر پر تاثیر ہو۔

سحر بیانی - (۱۰) صفت (۱۰) جادو بیانی۔ خوش بیانی۔ مؤثر تقریر کرنا۔

سحر جگنا - (۱۰) محاورہ (۱۰) جادو کی شق کرنا۔

سحر چل جانا (چلنا) - (۱۰) محاورہ (۱۰) جادو چلنا۔ اڑ ہونا۔

سحر حلال - (۱۰) صفت (۱۰) مذ (۱۱) فیض اشعار (۱۷) شہر گوئی (۱۳) اہلی شیرازی کی مشہور نشانی کا نام۔

سحر زدہ - (۱۰) صفت (۱۰) جس پر جادو کا اثر ہو گیا ہو۔

سحر سامری - (۱۰) صفت (۱۰) سامری کا جادو جس نے حضرت موسیٰ کے زمانے میں سونے کے پکڑے میں گویائی پیدا کی تھی۔

سحر سچ - (۱۰) صفت (۱۰) جیسے جادو کا سحر ہو۔

سحر طرز - (۱۰) صفت (۱۰) جادو کرنے والا۔ سحر کرنے والا۔

سحر طرازی - (۱۰) صفت (۱۰) صحت۔ سمور کرنا۔ جادو سا کر دینا۔

سحر - (س۔ ح۔) ۱۰ صفت (۱۰) صحت۔ سموری۔ سحر گہی۔

س س

سما - سماوت - (س-خ) (خ-ص) (د-ع) (ع-ا) (مٹ) (یت ضمی - بخشش - خیرات -

سخت - (ن - صفت) (۱) کڑا جو نرم نہ ہو - ٹھوس - ناخوش - درخت (۲) کڑھت - (۳) سنگین - بھاری (۴) مضبوط - پکا (۵) دشوار - کٹھن - مشکل (۶) کھڑ - بد مزاج (۷) بے رحم - سنگ دلی (۸) نہایت - بہت زیادہ (۹) تیز - کڑی - (۱۰) تند - شدید (فیض -)

سخت بات - (۱) مٹ (کڑی بات - ناگوار بات -

سخت جان - (ن - صفت) (۱) بے رحم - سنگ دل (۲) وہ شخص جس کی جان مشکل سے نکلے (۳) بے حیائی سے زندہ رہنے والا (۴) بھانکاش - مکتبی - سخت جانی - (ن - ا - مٹ) (۱) جان مشکل سے نکلنا (۲) بھانکشی -

سخت دن - (ن - ا - مذ) مصیبت کے دن - پریشانی کا زمانہ -

سخت دن آنا - (۱) محاورہ) مصیبت یا اذکار کا زمانہ آنا -

سخت زمین - (ن - صفت) (۱) پتھریلی زمین (۲) شعرا کی اصطلاح) مشکل روایت قافیہ -

سخت گھست گھنا - (۱) محاورہ) بڑا بھلا گھنا - سختی سے پیش آنا - لسن طعن کرنا - لعنت خواہت کرنا -

سخت کلامی یا کوئی - (ن - ا - مٹ) (۱) کڑے لہجے میں بات چیت (۲) بد مزاجی -

سخت گھڑیاں - (ن - ا - مٹ) مصیبت کا زمانہ - نخواست یا بدبختی کا دور -

سخت گیر - (ن - صفت) (۱) جو معمولی معمولی باتوں کو پکڑ کر لے (۲) جو چھوٹی سی غلطی پر بھی سزا دے -

سخت گیری - (ن - ا - مٹ) (۱) ڈرا ڈراسی بات کی پکڑ - بات بات پر سزا -

سخت لگام - (ن - ا - مٹ) (۱) سزور - سرکش (گھوڑا) -

سخت مزاج - (ن - صفت) تند مزاج - غصیلا -

سخت مشکل - (ن - ا - مٹ) بڑی تکلیف - بڑی مصیبت -

سخت مشکل پھڑنا - ہونا - بڑی دشواری پیش آنا - نہایت وقت ہونا -

سخت ناگوار گزارنا - ہونا - (۱) محاورہ) بہت بڑا معلوم ہونا -

سختانا - (ن - ا - مٹ) (۱) نا - ڈار - بھس) (۲) سخت پڑنا (۳) کیسی یا اصطلاح) مادے کا زہی ختم ہو کر ٹھوس بنا -

سختی - (ن - ا - مٹ) (۱) کڑا پن - کڑھکی - زہی نہ ہونا - ڈھشتی (۲)

مضبوطی - یا بھاری (۳) دشواری - وقت (۴) بے رحمی - سنگ دلی (۵)

بد مزاجی - کھڑ پین (۶) ظلم - زیادتی - تشدد - سخت گیری (۷) تندی - تیزی -

(۸) تنبیہ - ڈانٹ ڈپٹ (۹) افلاس - تہی دستی - تنگی (۱۰) اذکار - نخواست

(۱۱) مصیبت - ڈکھ -

سختی آیام - (۱) صفت) (۲) دن کی گردش - مصیبت کے دن -

سختی سے پیش آنا - (۱) محاورہ) بے رحمی کا برتاؤ کرنا - بدسلوکی کرنا -

سختی سے دقیق گزارنا - تکلیف اور بد حالی میں زندگی بسر کرنا -

سختی کرنا - (۱) محاورہ) ستانا ظلم کرنا - زیادتی کرنا - تنگ کرنا -

سختی کی گرہ - (۱) محاورہ) بڑا وقت - بڑے دن -

سختیاں کھینچنا - (۱) محاورہ) تکلیفیں اٹھانا - مصیبتیں جینا -

سختن - سختن - (ن - مٹ) (ن - مٹ) (ن - ا - مذ) (۱) بات - گنگو - کلام (۲)

و قول - جہد (۳) شعر (۴) مقولہ (۵) اعتراض -

سختن آرا - (ن - صفت) شیریں زبان - فصح - سخنور -

سختن انہیں پر ڈالے جو ہنس ہنس رکھیں مان - (۱) مثل) انہیں سے

و مانگنا چاہیے جو ہنس خوشی دینا جانتے ہوں -

سختن پر ڈاڑ - (ن - صفت) شاعر - ادیب - مقرر -

سختن پرور - (۱) بات کی دلچ کرنے والا (۲) عمدہ گنگو کرنے والا - شاعر -

مصنعت -

سختن پروری - (ن - ا - مٹ) بات کی دلچ - ضد - ہٹ دھرمی -

سختن چھین - (ن - صفت) (۱) پھیل خور - ادھر کی ادھر کرنے والا (۲) عیب جو

بڑائیوں ڈھونڈنے والا -

سختن چھینی - (ن - ا - مٹ) (۱) پھیل جو (۲) عیب نکالنا -

سختن دال - سخن کسر - سخن سنج - سخن ور - (ن - صفت) (۱) شاعر - شعر

کینے والا (۲) زبان دال (۳) خوش گفتار -

سختن درمیان میں لانا - (۱) محاورہ) گنگو کے درمیان کھ اور کہنا -

سختن در این امرت - (ن - مٹ) (۱) اس پر اعتراض ہے - یہ بات ماننے میں

تامل ہے - اس میں شبہ ہے -

سختن دینا - (۱) محاورہ) قول دینا - اقرار کرنا -

سختن ڈالنا - (۱) محاورہ) (۱) مانگنا (۲) سوال کرنا - پوچھنا -

سختن ساز - (ن - صفت) (۱) شاعر (۲) خوش بیان (۳) چرب زبان - باتیں

بنانے والا - فریبی - مکار -

سختن سازی - (ن - ا - مٹ) (۱) شاعری (۲) چرب زبانی - دنیا سازی -

مکاری (۳) خوش بیانی -

سختن شناس - (ن - صفت) (۱) بات کی تکرہ پہنچنے والا (۲) قدر دان سخن -

سختن شناس نہ امی دلبر اخطا ایجا صست - (ن - مثل) اسے عجب غلطی تو

یہ ہے کہ تو سخن شناس نہیں - جب کوئی شخص کسی کے کلام پر اپنی غلط فہمی کی

وجہ سے اعتراض کرے تو اس وقت کہتے ہیں -

سخن طراز - (ن - صفت) (۱) شاعر (۲) فصیح البیان -

سخن طرازی - (ن - ا - مٹ) (۱) شاعری (۲) فصیح تقریر کرنا -

سخن فہم - (ن - صفت) (۱) بات سمجھنے والا - تیز فہم (۲) حائق - دانا (۳) شاعر -

سخن فہمی - (ن - ا - مٹ) (۱) بات کا مطلب سمجھنا (۲) شعر کا صحیح

مطلب سمجھنا -

سخن فہمی عالم بالا معلوم شد - (ن - مقولہ) قابلیت کے دعوے کے

بوجود بات کا مطلب نہ سمجھنا -

سخن کا پورا - (ن - ا - صفت) بات کا دھمی - قول کا پکا مستقل مزاج -

سخن کوتاہ - (ن - صفت) مقتصد - مختصر -

سخن گستر - (ن - صفت) (۱) شاعر خوش گفتار خوش بیان -

سخن گستر آند - (ن - صفت) شاعرانہ چیر چارنگی بات - معترضانہ -

سُدھ پار۔ (وق) ہوش بختہ۔
 سُدھی۔ (سُدھ۔ دھی) (۵۔ ۱۔ مٹ) (۱) تکمیل (۲) مکمل صفائی (۳) کامیابی۔
 سُدھی۔ (سُدھ۔ دھی) (۵۔ ۱۔ مٹ) یا داشت۔ حافظہ۔
 سُدھی۔ (س۔ دی) (س۔ ۱۔ مٹ) (۱) اترتے چاند کا وقت۔ تری پینے کا دوسرا
 حصہ۔ تارک جتہ۔ چاند کے پینے کا دوسرا پندرہواڑہ۔
 سُدیشی۔ (۵۔ ۱۔ مذ) ایک ہی ملک کا۔ ایک ہی جگہ کا۔ ایک وطن۔
 سُدیشی۔ (۵۔ ۱۔ مٹ) دسی۔ مکی۔ اپنے ملک کا۔

س۔ ڈ۔

سُدول۔ (س۔ ڈول) (۵۔ ص) خوش وضع۔ خوب صورت۔ خوش نما۔
 متناسب۔ زیبا۔ موزوں۔
 سُدھال۔ (س۔ ڈھال) (۵۔ ص) خوبصورت۔ خوش وضع۔
 سُدھور۔ سُدھورا۔ (س۔ ڈھور) (س۔ ڈھور) (۱۔ ۵۔ مذ) سات طرح
 کا کپکپان جو دہن کے پہلے عمل کے ساتوں میں سے ایک سے آتا ہے۔
 اس کے ساتھ جو ترکاریاں ہوتی ہیں۔ ان سے دہن کی گود بھری
 جاتی ہے۔

س۔ ر۔

سُر۔ (س۔ ر) (۱) سُر۔ کھوپڑی (۲) کسی چیز کا اوپر کا حصہ۔ چوٹی (۳) ابتداء۔
 (۴) نگر۔ خیال (۵) نرد۔ قوت (۶) سردار (۷) خلاصہ۔
 (۸) خواہش۔ ارادہ (۹) کنارہ (۱۰) عنوان (۱۱) عشق (۱۲)
 دماغ (۱۳) برابر بالکل۔ (وق)
 سُر آغاڑ۔ (س۔ ر) (۱) مذ) عبارت کی پیشانی۔ عنوان۔
 سُر آمد۔ (س۔ ر) (۱) مذ) بزرگیہ۔ برتر (۲) حاکم۔ سردار۔
 سُر اجلاس۔ (س۔ ر) (۱) مذ) بھری کچھری میں۔ حاکم کے ٹو بہرہ۔
 سُر افراز (فراز)۔ (س۔ ر) (۱) ص) ممتاز۔ عالی مرتبہ۔
 سُر افگندہ۔ (س۔ ر) (۱) ص) سر نیچے کیے یا جھکائے ہوئے (۲) پریشان۔
 (۳) شرمندہ۔
 سُر انجام۔ (س۔ ر) (۱) ص) انتظام۔ بندوبست (۲) تکمیل (۳) نتیجہ۔
 خاتمہ۔ اتمام۔
 سُر انگشت۔ (س۔ ر) (۱) مذ) انگلی کا سرا۔ انگلی کا ڈبر کا حصہ۔
 سُر بار۔ (۱) دفتری اصطلاح (۲) وہ رقم جو قابل حصول چیزوں کا حساب پیش
 نہ کرنے پر بطور جرمانہ وصول کی جائے (۲) جرمانہ (۳) گھڑی جو بوجھ کے
 اوپر رکھی جائے۔
 سُر باز۔ (س۔ ر) (۱) مذ) جان پر کھینچنے والا۔ بہادر (۲) جنگ
 کرنے والا۔

کیا ہو۔ بنایا ہو۔ آراستہ۔ سجا ہوا (۲) عالم فاضل (۵) دلی۔ عابد۔ عارف۔
 بھکت۔ دھرماتما۔ سادھو (۶) گناہ سے پاک۔ بیچ۔ تندرست (۷) قانونی۔
 شری (۸) نینب وال۔ سیانا۔ ساغر (۹) فتاویٰ اللہ (۱۰) تاریخ۔ جادو کے زور
 سے قابو کیا ہوا (۱۱) کامیاب (۱۲) نورانی۔ چمک دار (۱۳) اعجازی۔ کرامتی۔
 سُدھ کرنا۔ (۱) محاورہ (۲) پورا کرنا۔ انجام تک پہنچانا (۳) جادو کے زور سے قابو
 کرنا (۴) پاک کرنا (۵) بنیاد ڈالنا (۶) کامیابی حاصل کرنا۔
 سُدھ۔ (۵۔ ۱۔ مٹ) (۱) حافظہ۔ یادداشت (۲) خبر۔ آگاہی۔ علم۔ واقفیت۔
 (۳) سمجھ۔ عقل۔ خیال (۴) چوکس رہنا (۵) توجہ۔ غور (۶) غور (۷)
 غور فکر (۸) لحاظ۔ پروا۔ نگر (۹) حواس (۱۰) ضعف (سُدول۔ موزوں۔
 (۱۱) خالص۔ پاک۔
 سُدھ بڈھ۔ (۵۔ ۱۔ مٹ) (۱) عقل و شعور۔ ہوش و آگاہی۔ حواس (۲)
 خبرگیری۔ خبر۔
 سُدھ بڈھ رکھنا۔ (۱) محاورہ (۲) خیال رکھنا۔ خبرگیری کرنا (۲) یاد رکھنا۔
 ذہن میں رکھنا۔
 سُدھ بڈھ لینا۔ (۱) محاورہ (۲) خبرگیری کرنا۔ چوکسی کرنا۔
 سُدھ بڈھ نہ رہنا۔ (۱) محاورہ (۲) خبر نہ رہنا (۲) ہوش نہ رہنا (۳)
 خیال نہ رہنا۔ توجہ نہ رہنا۔
 سُدھ پسرنا (پھولنا)۔ (۱) محاورہ (۲) بے ہوش ہو جانا (۲) عقل نازل کرنا۔
 (۳) بد حواس ہو جانا۔
 سُدھ رکھنا۔ (۱) محاورہ (۲) خبر یا دھیان رکھنا۔ خیال رکھنا (۲) یاد رکھنا۔
 سُدھ لینا۔ (۱) محاورہ (۲) خبر لینا (۲) دھیان رکھنا۔ خیال رکھنا۔
 سُدھ نہ ہونا۔ (۱) محاورہ (۲) خیال نہ ہونا۔ دھیان نہ ہونا۔
 سُدہ۔ (سُد۔ ۵) (س۔ ر) (۱) مذ) غلیظ مواد کی گٹھ جو انتریلوں یا رگوں میں
 اٹک جائے (۲) ڈیوڑھی۔ دہلیز۔
 سُدھارنا۔ (س۔ ر) (۱) ص) دھارنا۔ (۲) مص) (۱) جانا۔ رخصت ہونا۔ روانہ
 ہونا (۲) مرجانا۔
 سُدھا۔ (۵۔ ص) مانوس کیا گیا۔ تربیت دیا گیا۔
 سُدھا سُدھا یا۔ (۵۔ ص) درست کیا ہوا۔ مانوس کیا ہوا۔ تربیت یافتہ۔
 سُدھارنا۔ (س۔ ر) (۱) ص) دھارنا۔ (۲) مص) (۱) سوارنا۔ درست کرنا۔ اصلاح کرنا۔
 عیب یا خرابی دُور کرنا (۲) سزا دینا۔ ٹھیک بنانا۔
 سُدھار۔ (۵۔ ۱۔ مذ) اصلاح۔ دُستی۔ بہتری۔
 سُدھارو۔ (۵۔ ۱) رخصت ہو! (۲) چلو آگے جاؤ! (بے تکلفی، نظریان قدرت
 سے کہتے ہیں۔
 سُدھانا۔ (س۔ ر) (۱) ص) دھانا۔ (۲) مص) (۱) سکھانا۔ تربیت دینا (۲) جانور
 کو مانوس کرنا۔ کسی رستے پر ڈالنا (۳) رخصت ہونا۔
 سُدھرنا۔ (س۔ ر) (۱) ص) دھرنا۔ (۲) مص) (۱) درست ہونا۔ ٹھیک ہونا۔ بیچ ہونا۔
 اصلاح مانا (۲) راستے پر آنا۔ سُدھا ہو جانا۔
 سُدھنا۔ (سُدھ۔ نا) (۵۔ ص) (۱) تربیت پانا (۲) جانور کا مانوس ہونا۔
 سُدھنا۔ (سُدھ۔ نا) (۵۔ ص) (۱) صاف ہونا۔ میل دُور ہونا۔
 سُدھوانا۔ (سُدھ۔ نا) (۵۔ ص) (۱) درست کرنا (۲) جانور کو مانوس کرنا۔

سمر بازار - (ف-۱- مذ) بازار میں - شاہ راہ عام پر - منظر عام پر (۲)
 سب کے سامنے - علانیہ -
 سمر بازی - (ف-۱- مٹ) بہادری - شجاعت - جان پر کھیلنا -
 سمر بالیں - (ف-۱- مذ) سرانے -
 سمر بام - (ف-۱- مذ) کٹھے یا بالا خانے پر - لب بام -
 سمر برآورہ - (ف-صفت) (۱) بڑا بزرگ - معزز - نمایاں (۲) بڑا - افسر -
 سمر براہ - (ف-صفت) (۱) منظم - جہتم - جمع - سمر بالوں -
 سمر برائی - (ف-۱- مٹ) اجہام - انتظام -
 سمر برہنہ - (ف-صفت) ننگے سر -
 سمر بگریدہ - (ف-صفت) سرگٹا ہوا -
 سمر بڑا تو - (ف-صفت) (۱) سمر بڑا پرکھے ہوئے - سوچ میں - متفکر -
 نادم - شرمندہ -
 سمر بستہ - (ف-صفت) (۱) طغوت (۲) پھپھیا ہوا - پوشیدہ - مخفی -
 سمر بسر - (ف-۱) سمر - اس سر سے اس سر سے تک - کل - تمام -
 یکساں - برابر -
 سمر بہ صحر - (ف-صفت) دیوانہ وار - وحشیانہ -
 سمر بہ فلک - (ف-صفت) بہت اُدھیجا یا اُدھیجی -
 سمر بکھف - (ف-صفت) سمر بکھیل پر رکھے ہوئے - جان دینے پر آمادہ -
 سمر بگرمیاں - (ف-صفت) (۱) سوچ بچار کی حالت میں (۲) نادم - شرمندہ -
 سمر بلند - (ف-صفت) (۱) معزز - عالی مرتبہ - ممتاز - سمر افراز -
 سمر بلنددی - (ف-۱- مٹ) (۱) عزت - امتیازی شان - اعزاز -
 سمر بگہر - (ف-صفت) بندکے گہر لگایا ہوا - جسے سبیل کر دیا گیا ہو (۲)
 بند - گہر کیا ہوا -
 سمر بھر پیش نہاد - (ف-مقولہ) (دفتری اصطلاح) ٹیکیدار کا تیندہ جو سر بند
 لگانے میں ہو - (Sealed Tender)
 سمر بند - (ف-صفت) (۱) منہ بند - پیک کیا ہوا - ڈھکن بند کیا ہوا - منہ سیا
 ہوا (۲) کوچہ بند (۳) وہ چٹی جو عورتیں سمر پر باندھتی ہیں (۴) راز کی واقفیت
 (۵) پگڑی -
 سمر بہ جیب - (ف-صفت) (۱) سمر چھکانے ہوئے - سوچ میں (۲) اندر کی
 کی حالت میں -
 سمر پاؤ - (ف-۱) سراپا (۲) خلعت - لباس -
 سمر پرست - (ف-صفت) مڑتی - مددگار -
 سمر پرستی - (ف-۱- مٹ) امداد - حمایت -
 سمر پستان - (ف-۱- مذ) چھاتی کی گنڈی - چھاتی کا منہ پتھوچی -
 سمر پوش - (ف-۱- مذ) (۱) وہ کپڑا جو غائب پر ڈالتے ہیں (۲) ڈھلکا - چھینی -
 سمر پھوڑی - (ف-صفت) درد سمر - نفعول محنت -
 سمر پیچ - (ف-۱- مذ) (۱) پگڑی (۲) پگڑی کے اوپر کا چھوٹا سا کپڑا (۳) ایک
 قسم کا زیر جو پگڑی پر باندھتے ہیں -
 سمر تابی - (ف-۱- مٹ) سرکشی - نافرمانی - حکم عدولی - بغاوت -
 سمر تاپا - (ف-صفت) سر سے پاؤں تک - اول سے آخر تک -

سمر تاج - (ف-۱- مذ) (۱) آقا - مالک (۲) خاندانہ شوہر -
 سمر تاسر - (ف-۱) ایک سر سے سے دوسرے سر سے تک - سارے کا سارا -
 پورا - تمام -
 سمر تا قدم - (ف-صفت) سر سے پاؤں تک - پورے کا پورا -
 سمر تسلیم خم کرنا - (۱- محاورہ) حکم ماننا - راضی برضا ہونا -
 سمر چشمہ - (ف-۱- مذ) سوتا - منبع - پانی کے نکلنے کی جگہ -
 سمر چنگ - (ف-۱- مٹ) (۱) فٹھ کی ضرب جو پوری قوت سے ماری جائے -
 سمر حد - (ف-۱- مٹ) حد فاصل - کنارہ - انتہا -
 سمر خط - (ف-۱- مذ) (۱) قبیلہ - بیع نامہ (۲) گزایہ نامہ (۳) وہ کاغذ جس پر ملازمت
 کی تاریخ اور یادداشت لکھتے ہیں -
 سمر خوش - (ف-صفت) (۱) خوش حال - سمر درگن (۲) شراب سے مست -
 سمر خوشی - (ف-۱- مٹ) (۱) خوش حالی - سمرت کی کیفیت (۲) شراب کا
 سمر دور -
 سمر شیل - (ف-صفت) سمر گودہ - سمر غنہ - افسر - سردار -
 سمر دار - (ف-۱- مذ) سمر گودہ - سمر غنہ - افسر -
 سمر داری - (ف-۱- مٹ) (۱) افسری - حکومت -
 سمر داری کا ڈنڈا اٹھکا ہے - (۱) ایشل - بڑے عہدے پر رہنے کے بعد چھوٹا
 عہدہ قبول نہ کرنے والے پر طنز -
 سمر دربار - (ف-۱- مذ) دربار میں - حکم کھلا -
 سمر درگنار - (ف-۱- صفت) چپ - خاموش -
 سمر درگرمیاں - (ف-۱- صفت) دیکھے سمر بگرمیاں -
 سمر در ہوا - (۱) ایشل - معذور - متکبر -
 سمر دست - (ف-صفت) متعلق فعل (۱) اچھی - اس وقت - فی الحال - بالفضل (۲)
 ذرا -
 سمر دفتر - (ف-۱- مذ) (۱) دفتر کا افسر - ہیڈ کلرک - میر منشی -
 سمر راہ (رہ ہے) - (ف-۱- مذ) راہ میں - سڑک پر - راستے میں -
 سمر رشتہ - (ف-۱- مذ) (۱) تدبیر - چارہ کار (۲) معاملہ - مطلب - مقصود (۲)
 ٹکڑے - ڈیپارٹمنٹ - دفتر کچھری (۳) دستور - رواج -
 سمر رشتہ دار - (ف-صفت) میر منشی - ہیڈ کلرک -
 سمر رشتہ داری - (ف-۱- مٹ) میر منشی کا عہدہ -
 سمر رشتہ مال - (ف-صفت) زمین کا محصول وصول کرنے والا ٹکڑے -
 سمر رو - (ف-۱- مٹ) وہ رگ جس کی فصد کھولنے سے سمر اور چہرے کا خون
 نکلنا ہے -
 سمر زد ہونا - (مض- مرکب) (۱) واقع ہونا - صادر ہونا - ظاہر ہونا -
 (۲) عمل میں آنا -
 سمر زمین - (ف-۱- مٹ) (۱) حقہ - ملک (۲) زمین کی سطح -
 سمر زوش - (ف-۱- مٹ) (۱) طاقت - بڑا بھلا کھنا -
 سمر زنی - (ف-۱- مٹ) سمر مارنا - کوشش کرنا -
 سمر زود - (ف-صفت) سرکش - نافرمان - باغی - بیٹلا -
 سمر زوری - (ف-۱- مٹ) سرکشی - بغاوت -

سرسام۔ ایک بیماری جس میں سر میں دم ہو جاتا ہے۔
 سرسبز۔ (ف۔ صفت) (۱) تر تازہ۔ بہرا بھرا شاداب (۲) خوش حال۔ خوش
 خرم (۳) کامیاب۔ فتح مند۔
 سرسبز ہونا۔ (۱) محاورہ (۲) تر تازہ ہونا (۳) تلاش و عزم ہونا۔
 خوش حال ہونا۔
 سرشار۔ (۱) چمکانا ہوا۔ لہو زہ۔ لبالب (۲) نشے میں پور۔ نشانہ آزاد کے
 صنف بڈت رتن ناٹھ کا مخلص۔
 سرشام۔ (ف۔ متعلق فعل) شام ہوتے وقت۔ سورج چھتے وقت۔
 سرسگر۔ (ف۔ ۱۔ ۱) نڈ۔ فیلڈ مارشل۔ گمانڈرائیجف۔
 سرسفر۔ (ف۔ ۱۔ ۱) صفت (۲) دیوان کی بہترین منزل (۳) منزل کا مطلع۔
 سرسخت۔ (ف۔ صفت) سرگردہ۔ سردار۔
 سرسدا کرنا۔ (۱) محاورہ (۲) جان قربان کرنا۔
 سرسراز۔ (ف۔ صفت) ممتاز۔ سر بلند۔ ممتاز۔
 سرسرا کرنا۔ (۱) محاورہ (۲) عزت افزائی کرنا۔ درجہ بڑھانا۔
 سرسرازی۔ (ف۔ ۱۔ ۱) صفت (۲) بلند مرتبے کی (۳) ازالہ بکر۔
 سرسروش۔ (ف۔ ۱۔ ۱) نڈ (۲) جاں باز۔ دلیر۔
 سرسروش۔ (ف۔ ۱۔ ۱) صفت (۲) جاں بازی۔ دلیری۔
 سرسقم کرنا۔ (۱) محاورہ (۲) سر کاٹنا۔ گردن مارنا۔
 سرگردگی۔ (ف۔ ۱۔ ۱) صفت (۲) سرداری۔ قیادت۔
 سرگردہ۔ (ف۔ صفت) (۱) ممتاز۔ ممتاز۔ نمایاں (۲) حاکم یا افسر۔
 سرگردنا (ہونا)۔ (۱) محاورہ (۲) فتح کرنا۔ جیتنا (۳) زبردستی دینا (۴) چوٹی یا
 سرگڑھنا (۵) فیکرنا۔ بندوق چلانا یا داغنا (۶) ممکن کرنا (۷) اچھے یا تاش
 میں بڑا پتہ ڈال کر پتے اٹھانا۔
 سرگش۔ (ف۔ صفت) (۱) نافرمان (۲) باہمی (۳) مغرور (۴) بے وفا۔
 سرگشی۔ (ف۔ ۱۔ ۱) صفت (۲) نافرمانی (۳) بغاوت (۴) بے وفائی۔
 سرگوبی۔ (ف۔ ۱۔ ۱) صفت (۲) سرکیٹا۔ سزا دینا۔
 سرگودہ۔ (ف۔ ۱۔ ۱) نڈ (۲) پہاڑ کی چوٹی۔ قلعہ گودہ۔
 سرگذشت۔ (ف۔ ۱۔ ۱) صفت (۲) ماجرا۔ واردات۔ کیفیت (۳) حال۔ احوال۔
 قصہ۔ داستان۔ حکایت (۴) سوانح عمری۔ تذکرہ۔
 سرگراں۔ (ف۔ صفت) (۱) خفا۔ ناراض۔ برہم۔ کچا ہوا (۲) جو نشے کے
 غماز میں ہو۔
 سرگرائی۔ (ف۔ ۱۔ ۱) صفت (۲) نعلی۔ ناراضگی۔ برہمی۔ کشیدگی۔ رنجیدگی (۳) غماز۔
 درد سر (۴) افسردگی۔
 سرگرداں۔ (ف۔ صفت) (۱) حیران و پریشان (۲) آوارہ۔
 سرگردانی۔ (ف۔ ۱۔ ۱) صفت (۲) حیرانی و پریشانی (۳) آوارگی (۴) دقت (۵)
 تشویش۔ فکر۔ غم۔
 سرگرم۔ (ف۔ صفت) (۱) مستعد (۲) پرجوش (۳) مہنتی۔ کوشش کرنے والا۔
 سرگرمی۔ (ف۔ ۱۔ ۱) صفت (۲) کوشش۔ سعی۔ دھڑکھوپ۔ مہنت (۳) مستعدی۔
 سرگردہ۔ (ف۔ ۱۔ ۱) نڈ (۲) سردار۔ سر تیل (۳) سرغند۔
 سرگرمیاں میں ڈالنا۔ (۱) محاورہ (۲) شرمندہ ہونا۔ پریشان ہونا۔

سرگزار۔ (ف۔ صفت) جانناز۔ جان دینے والا۔
 سرگشگی۔ (ف۔ ۱۔ ۱) صفت (۲) حیرانی۔ پریشانی (۳) مصیبت۔ آفت۔
 خواست۔ بلا۔
 سرگشتہ۔ (ف۔ ۱۔ ۱) نڈ (۲) حیران۔ پریشان (۳) آوارہ۔ ہلکا ہوا۔
 سرگوشی۔ (ف۔ ۱۔ ۱) صفت (۲) کان پھوسی۔ کان میں بات کہنا (۳) چھٹی۔ قیمت۔
 سرگوشکر۔ (ف۔ ۱۔ ۱) نڈ (۲) جرتیل۔ امیر۔
 سرگوج۔ (ف۔ ۱۔ ۱) نڈ (۲) نقش و نگار جو کتاب کے پہلے صفحے پر رسم اللہ کی
 جگہ بنائے جاتے ہیں۔
 سرگمفل۔ (ف۔ ۱۔ ۱) نڈ (۲) مجلس کے رُو بَرُو۔ سب کے سامنے۔
 سرگمست۔ (ف۔ صفت) (۲) اتلا۔ مدہوش۔ نشے میں پور۔
 سرگمغزی۔ (ف۔ ۱۔ ۱) صفت (۲) بک بک۔ مغزنی۔
 سرگمگو۔ (ف۔ ۱۔ ۱) نڈ (۲) بال کوک کے برابر۔ ذرا سا۔ رائی برابر۔
 سرگمنزل۔ (ف۔ ۱۔ ۱) صفت (۲) ٹھہرنے کی جگہ۔ سرائے۔
 سرگمیدان۔ (ف۔ ۱۔ ۱) صفت (۲) لڑائی میں۔ مقابلے میں۔ کھلم کھلا۔
 سرگنام۔ (ف۔ صفت) (۲) شہسور۔ نامور (۳) ممتاز۔
 سرگنام کرنا۔ (۱) محاورہ (۲) مشہور کرنا۔ منادی کرنا۔
 سرگنام۔ (ف۔ ۱۔ ۱) نڈ (۲) خط کی پیشانی۔ لیسٹریڈ (۳) مکتوب الیہ کا پتہ اور نشان
 جو خط پر لکھا جائے۔
 سرگنجل۔ (ف۔ صفت) (۲) مسکے بل۔ اوندھا (۳) شرمندہ۔ نجل۔
 سرگنو۔ (ف۔ متعلق فعل) دوبارہ۔ نئے سرے سے۔
 سرگنوشت۔ (ف۔ ۱۔ ۱) صفت (۲) تقدیر کا لکھا۔ گرم رکھا۔ مقسوم۔ تقدیر۔
 نصیب۔ بھاگ۔
 سرگو یا۔ (ف۔ متعلق فعل) (۲) سر سے پاؤں تک (۳) خلعت۔
 سرگو یا کی شہر نہ ہونا۔ (۱) محاورہ (۲) بے ہوش ہونا۔ بدحواس ہونا۔
 سرگورق۔ (ف۔ ۱۔ ۱) نڈ (۲) کتاب کا پہلا ورق۔ ٹیٹیل بیج۔
 سرگوسا مال۔ (ف۔ ۱۔ ۱) نڈ (۲) ضروری اسباب۔ لوازمات۔
 سرگوکار۔ (ف۔ ۱۔ ۱) نڈ (۲) واسطہ۔ تعلق (۳) غرض۔ مطلب (۴) رحمان۔ جھکاؤ۔
 خواہش۔ میل۔
 سرگوکار نہ ہونا۔ (۱) محاورہ (۲) تعلق یا واسطہ نہ ہونا۔
 سرگہنگ۔ (ف۔ ۱۔ ۱) نڈ (۲) فوج کا سردار (۳) سپاہی۔ پہلوان۔
 سرگہونا۔ (۱) محاورہ (۲) فتح ہونا (۳) دغا۔ غیر ہونا (۴) مشکل ہونا۔
 (۵) شروع ہونا۔
 سرگہ۔ (۱) نڈ (۲) تاش یا گینے کا پتہ جو کھیلا جائے (۳) وہ تین یا چار پتے
 جو جیتنے والا لے جائے (۴) مرتبے میں بڑا پتہ مثلاً آکا۔ بادشاہ وغیرہ۔
 (۵) چتر۔ تالاب۔ حوض۔ جھیل (۶) نادرک خندگ (۷) پانی۔ آب۔
 بل (۸) سرگندہ۔ نزل۔
 سرگہنا۔ (۱) محاورہ (۲) پتے جیت کر لے جانا۔
 سرگہنگنا۔ (۱) محاورہ (۲) تاش یا گینے کا پتہ پھینکنا۔
 سر۔ (Sir) (۱) نام۔ (۲) (۱) بڑوں سے خطاب کرنے کے لیے (۲)
 جناب۔ جناب والا (۳) انگلٹن کے امرا کا لقب (۴) سرکار انگریزی کا

ایک خطاب۔

سر - سر - (۱-۵) مذ (۱) سر - سر - کھوپری - چوٹی (۲) ذمہ (۳) مالک - آقا - سردار (۴) ابتدا - شروع -

سر آفتنا - (۱) محاورہ (۲) الزام آنا (۳) مصیبت یا آفت آنا -

سر آنا - (۱) بھوت پریت کا اثر ہونا (۲) سرکٹ کر آنا -

سر آنکھوں (پر) سے - (۱) متعلق فعل (۲) دل و جان سے - بڑی خوشی سے (رضامندی یا اتفاق مانے کا ظہر کرنے کے لیے کہتے ہیں) -

سر آنکھوں پر (بٹھانا) لینا - (۱) محاورہ (۲) بہت عزت اور تکریم کرنا - خوب آڈیجکت کرنا -

سر آنا کرنا - (۱) محاورہ (۲) سر کاٹنا - گردن اڑانا -

سر آکر دانا - (۱) محاورہ (۲) سر کوٹنا - گردن کوٹنا -

سر اٹھا کر چیلنا - (۱) محاورہ (۲) عزت کرنا - اترانا -

سر اٹھانا - (۱) محاورہ (۲) سر اُپر یا اُوپر چا کرنا (۳) شور کرنا - غل کرنا (۴) سر کو ہٹانا - گردن سر کاٹنا (۵) سرکشی یا بغاوت کرنا - فساد یا شہر آشوبی کرنا (۶) اترانا - عزت کرنا - اگرتا (۷) ہند یا ہٹ کرنا (۸) مقابل ہونا -

بمباری کرنا (۹) ٹھٹ کرنا -

سر اٹھانے کی فرصت نہ ہونا - (۱) محاورہ (۲) بالکل فرصت نہ ملنا - بنیاد عظیم العزمت ہونا -

سر اٹھانے نہ دینا - (۱) محاورہ (۲) ذرا بھی فرصت نہ دینا (۳) بہت شرمندہ کرنا - سر (اڑانا) اڑا دینا - (۱) محاورہ (۲) سر کاٹ ڈالنا - گردن کاٹ دینا - سر اڑانا - (۱) محاورہ (۲) سر اٹھانا - سر اُپر چا کرنا -

سر الٹ کرنا - (۱) محاورہ (۲) سر کاٹ ڈالنا - سر کو جسم سے جدا کر دینا -

سر اُوپر چا کرنا - (۱) محاورہ (۲) عزت بخش - شرف رکھنا - وقار بڑھانا -

سر باندھنا - (۱) محاورہ (۲) پٹا بازی کی اصطلاح (۳) سر کا نشانہ باندھنا (۴) سر کے بالوں میں موہاٹ ڈالنا - سر گندھنا - چوٹی کرنا -

سر براہ - (۱) مذ (۲) منتظم - انتظام کرنے والا -

سر بردار کا سر پیر بگنوار کا - (۱) مثل (۲) بڑے یا نقل مندا آدمی کا سر بڑا ہونا ہے اور جاہل کے پاؤل -

سر بھاری ہونا - (۱) محاورہ (۲) نزلے یا زکام کی وجہ سے سر بوجھل معلوم ہونا - درد سر ہونا - سر گھومنا -

سر بچھنا - (۱) محاورہ (۲) جان کو ہلاکت میں ڈالنا (۳) فوج میں بھرتی ہونا -

سر بیگار ہونا - (۱) محاورہ (۲) ناپسندیدہ کام دینے ہونا -

سر پاؤل - (۱) مذ - سر - سر (۲) ابتدا (۳) اتر پتہ - ٹھکانا -

سر پاؤل (سر پیر) نہ ہونا - (۱) محاورہ (۲) آنا اور انجام کا پتہ دینا - جہل ہونا - سر چپک کے مرتب ہونا - (۱) محاورہ (۲) سرنگر کے جان دے دینا (۳) اہتمامی کوشش کے باوجود کامیابی نہ ہونا -

سر شکتی رہ جانا - (۱) محاورہ (۲) بے نتیجہ کوشش کرنا -

سر سٹھنا - (۱) محاورہ (۲) سر دے دے مارنا - سر پھوڑنا (۳) بھلانا - گھبرانا - بھگتھلانا (۴) بہت کوشش کرنا - ہاتھ پاؤل مارنا (۵) منت

سماجت کرنا (۵) بہت زیادہ سوچ بچار یا غور و فکر کرنا (۶) تلاش یا تجسس کرنا (۷) بہت افسوس کرنا -

سر پر - (۱) متعلق فعل (۲) بہت قریب - بے حد نزدیک (۳) ذمہ - سر کے اُوپر

سر پر اُوپر کرنا - (۱) محاورہ (۲) ذمہ پڑنا (۳) وارد ہونا -

سر پر آپیٹھنا - (۱) محاورہ (۲) بہت قریب آجانا (۳) نزدیک یا سامنے ہی ہونا -

سر پر اُوپر کرنا - (۱) محاورہ (۲) آجور ہونا - سر پر سوار ہو جانا (۳) مقابلہ کو کھڑے ہو جانا (۴) پیچھے بڑھ جانا -

سر پر (آرا) آرسے چلنا - (۱) محاورہ (۲) ہلاکت میں پڑنا - جان پر ہٹنا (۳) ناقابل برداشت تکلیف میں مبتلا ہونا -

سر پر آرسے چل گئے تو بھی مدار ہی مدار - (مثل) سخت تکلیف اٹھانی پھر بھی اپنی ہمت پر قائم رہے -

سر پر آفت آنا - (۱) محاورہ (۲) سخت مصیبت آنا -

سر پر آنا - (۱) محاورہ (۲) قریب آنا (۳) کسی جن بھوت پریت کا سایہ ہونا -

سر پر آنکھیں نہ ہونا - (۱) محاورہ (۲) بے عقل یا بے وقوف ہونا -

سر پر اٹھا کر لے جانا - (۱) محاورہ (۲) سرگستاخی سے جانا (۳) سر پر رکھ کر لے جانا - سر پر (اٹھانا) اٹھا لینا - (۱) محاورہ (۲) شور کرنا - غل مچانا (۳) شرارت یا فتنہ اٹھانی کرنا (۴) تعظیم و تکریم کرنا -

سر پر (اجل) قصا کھیلنا - (۱) محاورہ (۲) موت قریب ہونا (۳) شامت آنا - خواست یا بدبختی آنا -

سر پر احسان (دھرنا - رکھنا) کرنا - (۱) محاورہ (۲) بھلائی کرنا - احسان مند بنانا -

سر پر بال ہونا - (۱) محاورہ (۲) مجال ہونا - ہنسنے کی طاقت ہونا -

سر پر بٹھانا - (۱) محاورہ (۲) بہت تعظیم و تکریم سے بٹھانا -

سر پر ہٹنا - (۱) محاورہ (۲) مصیبت نازل ہونا - آفت میں مبتلا ہونا -

سر پر بوجھ پڑنا - (۱) محاورہ (۲) کسی کا ممنون احسان ہونا (۳) ذمہ داری پڑنا (۴) فکر مند ہونا -

سر پر لوٹنا - (۱) سانپ کے کاٹے ہونے کا جوش آدمی کا منتر سے نروسے بائیں کرنا (۲) بھوت پریت کا انسان کے جسم میں حملول کر کے بلانا -

سر پر بھوت سوار ہونا - (۱) محاورہ (۲) بھوت پریت کا سایہ ہونا - (۳) پاگل ہونا (۴) بدحواس ہونا (۵) بہت زیادہ ناراض یا مشتے ہونا -

سر پر بٹھنا - (۱) محاورہ (۲) جگہ یا گنجائش نہ ہونے کے سبب کسی کے اُوپر بڑھ کر بیٹھنا (۳) اس طرح بیٹھنا کہ دوسروں کو بے آزادی ہو (۴) تعظیم و تکریم ہونا -

سر پر پاؤل رکھ کر بھاگنا - (۱) محاورہ (۲) بے حاشا بھاگنا - بہت تیز بھاگنا -

سر پر پر بال کھیلنا - (۱) محاورہ (۲) بڑوں کا سایہ ہونا -

سر پر پڑنا - (۱) محاورہ (۲) ذمہ ہونا (۳) بلانا نازل ہونا - مصیبت آنا (۴) گذرنا - بچھنا - سر پر پہنا کرنا - (۱) محاورہ (۲) سخت مصیبت نازل ہونا -

سرپرستوں) پر تھالی پھرنا۔ (۱۔ محاورہ) بہت زیادہ جوم ہونا۔
 سرپرستیکا ہونا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) عزت پانا (۲) حق دار ہونا (۳) کسی کام کا کسی شخص پر انحصار ہونا (۴) راج تک لگایا جانا۔
 سرپرستین پڑھنا (سوار ہونا)۔ (۱۔ محاورہ) (۱) بھوت پریت کا اثر ہونا (۲) نہایت طیش میں بھرا ہونا نہندیا ہست پر قائم ہونا۔
 سرپرستوں کی ہاتھ میں روٹی۔ (۱۔ اصل) کھانے کو بل جانے خواہ بے عزتی ہی کیوں نہ ہو۔
 سرپرستوں پر تھارہنا۔ (۱۔ محاورہ) پیچھے لگا رہنا۔ غالب رہنا۔
 سرپرستوں پر تھانا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) عزت دینے کے لیے سرپرست رکھنا (۲) بہت زیادہ منہ لگانا۔ حد سے زیادہ خیال رکھنا۔ بہت لاڈ کرنا (۳) گستاخ یا بے ادب بنانا۔
 سرپرستوں پر تھنا۔ سرپرستوں۔ (۱) گستاخ ہونا۔ بے ادب ہونا (۲) بہت بے تکلف ہونا (۳) سرپرستوں ہونا (۴) گھنڈ کرنا۔
 سرپرستوں (چلانا) غل مچانا۔ (۱۔ محاورہ) پاس آگیا قریب کھڑے ہو کر شور کرنا۔
 سرپرستوں پھیر رکھنا۔ (۱) بوجھ ڈالنا (۲) احسان کے بوجھ تلے دباننا (۳) الزام لگانا (۴) کسی کے ذمے بہت سا قرضہ ڈال دینا۔
 سرپرستوں اٹھا لینا۔ (۱۔ محاورہ) بہت شور مچانا۔
 سرپرستوں خاک (اُڑانا) ڈالنا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) ماتم کرنا۔ رونا۔ پیٹنا۔ سوگ منانا (۲) بہت اتسوس کرنا۔
 سرپرستوں (پڑھنا) سوار ہونا۔ (۱۔ محاورہ) جان لینے پر کمر بستہ ہونا۔
 سرپرستوں لینا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) حق یا خون کا الزام اپنے ذمے لینا۔
 سرپرستوں شفقت رکھنا۔ (۱۔ محاورہ) مہربانی کرنا۔ پناہ میں لینا۔
 سرپرستوں دھمال ہونا۔ (۱) سرپرستوں غل ہونا (۲) بہت سی دقتوں کا سامنا ہونا۔
 سرپرستوں ڈھول بجننا۔ (۱۔ محاورہ) بہت قریب شور ہونا۔
 سرپرستوں رکھنا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) تعظیم کرنا۔ مقدس یا قابل احترام جاننا (۲) ذمے ڈالنا (۳) سرپرستوں اٹھانا۔ بوجھ اپنے سر لینا۔
 سرپرستوں رہنا۔ (۱۔ محاورہ) نگہانی کرنا۔ ہر وقت پاس رہنا۔
 سرپرستوں سار (رہنا) ہونا۔ (۱۔ محاورہ) سرپرست یا بزرگ کا زندہ ہونا۔
 سرپرستوں سپر سوار ہونا۔ (۱۔ محاورہ) محو دست پڑنا۔ شامت آنا۔ تقدیر گردش میں آنا۔
 سرپرستوں سوار رہنا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) ہر وقت ساتھ رہنا۔ مُسَلِّط رہنا۔
 سرپرستوں سہنا۔ (۱۔ محاورہ) برداشت کرنا۔
 سرپرستوں سے صدقے آتا کرنا (کرنا۔ وارنا)۔ (۱۔ محاورہ) قربان کرنا۔
 سرپرستوں سے نکلنا۔ (۱۔ محاورہ) بہت قریب سے گزرتا۔
 سرپرستوں شیطان سوار ہونا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) غصہ پڑھا ہونا (۲) کہنا نہ ماننا۔ نصیحت کی بات نہ سننا (۳) کسی بری حرکت پر کمر بستہ ہونا۔ شرارت پر اُدھار کھانے ہونا۔
 سرپرستوں عذاب لینا۔ (۱۔ محاورہ) گناہ کا کام کرنا۔
 سرپرستوں قیامت آنا (لوٹنا)۔ (۱۔ محاورہ) بہت مصیبت نازل ہونا بھت ظلم ہونا

سرپرستوں کی ہانڈی رکھنا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) بدنام ہونا (۲) شرمندگی یا نجات اٹھانا۔
 سرپرستوں (سے) کھن بانڈھنا۔ ہر وقت جان دینے کو تیار رہنا۔
 سرپرستوں کو دوں دلنا۔ (۱۔ محاورہ) دوسرے کو جھلانے کے لیے کوئی کام کرنا۔
 سرپرستوں کوئی نہ ہونا۔ (۱۔ محاورہ) بے یاد مددگار ہونا۔ کوئی سرپرست نہ ہونا۔
 سرپرستوں کھڑا ہونا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) بہت پاس ہونا۔ نہایت قریب ہونا۔ (۲) اسانے موجود ہونا۔
 سرپرستوں کھیل جانا۔ (۱۔ محاورہ) جان کی پروا نہ کرنا۔ جان جو حکم کا کام کرنا۔
 سرپرستوں (گھر) زمین اٹھانا۔ (۱۔ محاورہ) بہت زیادہ شور مچانا۔ اُدھم مچانا۔
 سرپرستوں لینا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) ذمے لینا (۲) برداشت کرنا۔
 سرپرستوں نہ رہنا۔ (۱) بزرگ یا سرپرست کا انتقال ہو جانا۔
 سرپرستوں وبال لینا۔ (۱۔ محاورہ) اپنے ذمے گناہ کا عذاب لینا۔
 سرپرستوں وارنا۔ (۱۔ محاورہ) قربان کرنا۔ صدقے کرنا۔
 سرپرستوں ہاتھ پھیرنا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) پیاد کرنا۔ چمکانا۔ تسلی دینا (۲) لوٹنا۔ صفایا کرنا۔
 سرپرستوں ہاتھ دھر کے رونا۔ سرپرستوں کے رونا۔ (۱۔ محاورہ) بہت پچھتانا۔ بہت رنج کرنا۔
 سرپرستوں ہاتھ دھرتا (رکھنا)۔ (۱۔ محاورہ) (۱) سرپرستی کرنا۔ حامی و مددگار بننا (۲) کسی کے سر کی قسم کھانا۔
 سرپرستوں ہونا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) شرفی یا بزرگ کا زندہ ہونا (۲) حمایت کرنا (۳) ذمے ہونا (۴) قریب یا نزدیک ہونا۔
 سرپرستوں پڑنا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) ذمے ہونا (۲) پیچھے پڑنا۔ سر ہونا (۳) جھٹے میں آنا۔
 سرپرستوں کا سوا۔ (۱۔ مذ) مجبوری کی بات یا معاملہ۔
 سرپرستوں کر (پھینکا) رہ جانا۔ (۱۔ محاورہ) رنج و غم کی صورت ظاہر کرنا۔ سوگوار بن کر بیٹنا۔
 سرپرستوں کے رونا۔ (۱۔ محاورہ) شدت سے رونا۔ سرپرستوں ہاتھ دھر کے رونا۔
 سرپرستوں ٹا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) سہارا دینا۔ امداد دینا۔ دست گیری کرنا (۲) تسلی یا دلاسا دینا (۳) دودا کا سر کو بھیل کرنا۔ سر جھک لینا۔
 سرپرستوں۔ (۱) صفت) پنچیت کا سر براہ۔ بچوں کا سردار۔ صدر۔ میر جلس۔
 سرپرستوں۔ (۱۔ محاورہ) (۱) سر جھوٹنا (۲) سر میں شدید درد ہونا۔
 سرپرستوں۔ (۱) صفت) (۱) لڑائی جھگڑا (۲) ایسی لڑائی جس میں سر جھوٹیں۔
 سرپرستوں۔ (۱۔ مذ) خشلی۔ مجنون۔ جنڈی۔
 سرپرستوں۔ (۱۔ محاورہ) (۱) بکواس سے اپنے اور سننے والوں کے سروں میں درد پیدا کر دینا (۲) معزنا مارنا۔ سمجھانا۔
 سرپرستوں پھر جانا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) دیوانہ ہونا (۲) مت بگڑنا (۳) سر جھکنا۔
 سرپرستوں۔ (۱۔ محاورہ) خشلی ہے۔ پاگل ہے۔
 سرپرستوں۔ (۱۔ محاورہ) (۱) سر کا شق ہونا (۲) مار گئی ہونا (۳) سر میں سخت درد ہونا۔
 سرپرستوں کر (پیر کر۔ توڑ کر) لینا۔ (۱) زبردستی لینا (۲) ڈرا دھکا کر وصول کرنا۔

سر پھوڑنا۔ (۱- محاورہ) (۱) سر کے ٹکڑے کرنا (۲) سر سے دے مارنا (۳) لڑھکڑ
 کر سر زخمی کرنا (۴) بے فائدہ یا لاج حاصل کام کرنا۔
 سر پھیرنا۔ (۱- محاورہ) کہانہ ماننا۔ حکم عدولی کرنا۔
 سر پیٹنا۔ (۱- محاورہ) (۱) ماتم کرنا (۲) غصے میں آکر سر پر دو ہتھ پڑانا (۳) بے حد
 افسوس کرنا۔ تپلانا۔
 سر پیرنا ہونا۔ (۱- محاورہ) بات کا بے معنی یا مٹل ہونا۔
 سر توڑنا۔ سر پھوڑنا۔
 سر توڑ کر لینا۔ زبردستی لینا۔ ڈرا دھکا کر لینا۔
 سر توڑ کوشش کرنا۔ (۱- محاورہ) بہت سخت کوشش کرنا۔ بے حد
 مشقت کرنا۔
 سر تو نہیں کھجاتا۔ (۱- محاورہ) مار کھانے کو دل تو نہیں چاہتا۔
 سر تقام لینا۔ (۱- محاورہ) بڑی خبر سن کر اپنا سر پھوڑ لینا۔ بہت رنجیدہ ہونا۔
 سر تھکانا۔ (۱- محاورہ) بہت سمجھانا۔ بہت مغز ماری کرنا۔
 سر تھوپنا۔ (۱- محاورہ) (۱) الزام لگانا (۲) ڈتے ڈالنا۔
 سر ٹکراتے پھرنے۔ (۱- محاورہ) حیران و پریشان پھرنا۔ آوارہ پھرنا۔
 سر ٹکرانا۔ (۱- محاورہ) (۱) سر سے دے مارنا (۲) سمجھدے کرنا (۳) جان نشانی
 کے ساتھ کوشش کرنا۔ بہت جھگڑنا۔
 سر جانا۔ (۱- محاورہ) (۱) نقل ہونا۔ مارا جانا (۲) الزام آنا (۳) ڈتے آنا۔
 (کھینچے میں) ہتھ بھر جانا۔
 سر جاتے بات میں فرق نہ آئے۔ (۱- مقولہ) جان دے کر بھی ہمد
 یوزا کرنا چاہیئے۔
 سر جوڑ کر بیٹھنا۔ (۱- محاورہ) (۱) مل کر بیٹھنا (۲) مشورے کے لیے اکٹھے ہونا۔
 سر جھاڑ منہ پہاڑ۔ (۱- صنف) (۱) بھیاک صورت میں (۲) عورت کا
 بناؤ سنگار نہ کرنا۔ وحشانہ صورت سے۔
 سر جھاڑنا۔ (۱- محاورہ) کنگھی کرنا۔
 سر جھکانا۔ (۱- محاورہ) (۱) اناعت یا فریاض برداری کرنا (۲) شرمندہ ہونا۔
 رنجرت محسوس کرنا (۳) عاجزی ظاہر کرنا۔
 سر جھکنا۔ (۱- محاورہ) (۱) مغلوب ہونا۔ دینا (۲) عاجزی کا اظہار (۳) شرمندگی
 کے باعث گردن پچی ہونا۔
 سر چلیکنا۔ (۱- محاورہ) ڈتے ڈالنا۔ سر منڈھنا۔
 سر چڑھنا۔ (۱- صنف) (۱) لاڈلا۔ منہ لگا (۲) گستاخ۔ بے ادب۔
 سر چڑھانا۔ (۱- محاورہ) بہت شرم لگانا۔ بہت زیادہ لاڈ کرنا۔
 سر چڑھ کر۔ (۱- متعلق فعل) (۱) سر پر کھڑے ہو کر (۲) ڈتے پڑ کر (۳) ضد
 کر کے۔ بالا صرار (۴) از خود ظاہر ہو کر۔
 سر چڑھ کر کے لوٹنا۔ (۱- محاورہ) (۱) ٹھوٹ پریت کا سر پر آکر کھیلنا
 (۲) کسی بات کا اثر از خود ظاہر ہونا چھپائے نہ چھپانا۔
 سر چڑھ کر سیکنا۔ (۱- محاورہ) عزت کے گر ذلیل کرنا۔
 سر چڑھ کے مرنا۔ (۱- محاورہ) اپنے مرنے کی ذمہ داری دوسرے پر ڈالنا۔
 سر چڑھنا۔ (۱- محاورہ) (۱) بے تکلف ہونا (۲) گستاخ یا بے ادب ہونا۔
 (۳) مقابلہ کرنا۔ بربادی کرنا (۴) قرضہ ذمہ ہو جانا۔

سر چکٹ جانا (چکھٹنا۔ (صن۔ مرکب) میل کی وجہ سے بالوں کا ایک
 دوسرے سے چٹ جانا۔
 سر چکرانا۔ (۱- محاورہ) سر ٹھوٹنا۔
 سر چھلا جانا۔ (۱- محاورہ) درد کے مارے سر کا گرا پڑنا۔
 سر چھوٹ۔ (۱- صنف) (۱) ناگوار۔ نہایت خلاف مرضی (۲) پھڑ (۳)
 چاٹ۔ لاگ۔
 سر چیرنا۔ (۱- محاورہ) (۱) ہند کرنا۔ اڑنا۔ ہٹ کرنا (۲) لڑائی جھگڑا کرنا (۳)
 مارے جانے پر کمر بستہ ہونا (۴) سر پھوڑنا۔
 سر چاھنے سے۔ جان دینے میں عذر نہیں۔
 سر خالی کرنا۔ (۱- محاورہ) بک بک کر کے دماغ تھکا دینا۔
 سر دکھانا۔ سر میں سے جویش نکالنا۔
 سر دکھانا۔ (۱- محاورہ) سر میں درد پیدا کر دینا۔
 سر دھرا۔ (۱- صنف) (۱) بڑا بوڑھا۔ بزرگ۔ سر پرست۔ ولی۔ وارث۔
 (۲) آقا۔ افسر۔ سردار۔ مالک۔ سر کردہ۔
 سر دھرتا۔ (۱- محاورہ) (۱) ذمہ دار گردانا (۲) الزام لگانا۔
 سر ڈھنٹنا۔ (۱- محاورہ) (۱) سر کو دے دے مارنا۔ سر پیٹنا (۲) افسوس کرنا۔
 تپلانا (۳) ماتم کرنا (۴) مزے میں آکر جھومنا یا سر بلانا۔
 سر دینا۔ (۱- محاورہ) (۱) جان دینا۔ سر قربان کرنا۔
 سر ڈالنا۔ (۱- محاورہ) ڈتے لگانا۔
 سر ڈوب۔ (۱- صنف) (۱) شربور (۲) سر سے اڑنا پانی۔ اتنا گہرا پانی کہ سر
 ڈوب جائے۔
 سر ڈھانکنا۔ (۱- محاورہ) (۱) سر پر کپڑا ڈالنا (۲) باکرہ عورت سے
 واصل ہونا۔
 سر ڈنگنا۔ (۱) سر کو زخمی کرنا۔ سر سے خون نکلنا (۲) سر میں خضاب لگانا۔
 سر رہنا۔ (۱- محاورہ) (۱) سر بیچ جانا۔ جان سلامت رہنا (۲) کسی کام سے
 لگے رہنا۔ کوشش کرتے رہنا پیچھے پڑے رہنا (۳) ڈتے ہونا۔
 سر زانو پر دھرا ہونا۔ (۱- محاورہ) تم داندوہ کا عالم۔
 سر زوری۔ (۱- صنف) سرکش۔ نافرمان۔
 سر زیر قدم ہونا۔ (۱- محاورہ) مغلوب ہونا۔ کسی کے ماتحت ہونا۔
 سر سجدے میں سمن بدل لوں میں۔ (۱) ایشل (۲) ظاہر نیک باطن خراب۔
 ظاہر میں اچھا۔ اندر خائفے بڑا۔
 سر سفید ہونا۔ (۱- محاورہ) بالوں کا بک جانا۔ بڑھا یا آجانا۔
 سر سلامت ہونا۔ (۱- محاورہ) زندہ ہونا۔
 سر سہرا ہونا۔ (۱- محاورہ) عزت یا سرداری کا نشان ہونا۔ کامیابی ہونا۔
 کسی اچھی بات کا کسی شخص پر منحصر ہونا۔
 سر سہلانا۔ (۱- محاورہ) (۱) پیار سے سر پر آہستہ آہستہ ہاتھ پھیرنا (۲)
 تعریف کرنا۔ خوشامد کرنا۔
 سر سہلانا بھیجا کھانا (سر سہلائے بھیجا کھائے)۔ (۱- مثل) تعریفیں
 کر کے مال اڑانا (۲) دوست بن کر نقصان پہنچانا۔
 سر سے اتارنا۔ (۱- محاورہ) وارنا۔ حدتے کرنا (۲) آسیب ڈور کرنا۔

سر سے بلا ٹالنا۔ (۱۔ محاورہ) آئی ہوئی مصیبت دُور کرنا۔ بے دلی سے کوئی کام کرنا۔ مجبوری سے کوئی کام کرنا۔
 سر سے بوجھ (اُتارنا، ٹالنا)۔ (۱۔ محاورہ) (۱) قرضہ اُتارنا (۲) بیٹے یا بیٹی کی شادی کے کام سے خارج ہو جانا (۳) بے دلی سے کام کرنا۔ دفع الوقتی کرنا۔
 سر سے بوجھ باندھنا۔ (۱۔ محاورہ) غمخوارہ کا خرچ اپنے ذمے لے لینا۔ سخت کی ذمہ داری لینا۔
 سر سے بیگاڑ ٹالنا۔ (۱۔ محاورہ) ناپسندیدہ کام کو بے دلی سے کرنا۔
 سر سے پانی (اُونچنا، چھوٹا کرنا)۔ (۱۔ محاورہ) اہتہا ہو جانا۔ ناقابل برداشت حد تک پہنچ جانا۔
 سر سے پاؤں تک الگ لگنا۔ (۱۔ محاورہ) جل جھن جانا۔ بہت زیادہ غصہ ہونا۔
 سر سے ہسٹاڑ ٹالنا۔ (۱۔ محاورہ) مصیبت دُور کرنا۔
 سر سے تنگ اُتارنا۔ (۱۔ محاورہ) معمولی سا احسان کرنا۔
 سر سے ٹلنا۔ (۱۔ محاورہ) دفع ہونا۔ پیچھا چھوڑنا۔
 سر سے چلنا۔ سر کے بل چلنا۔ (۱۔ محاورہ) بے حد تعظیم و کرم سے جانا۔
 سر سے سایہ اُٹھنا۔ (۱۔ محاورہ) کسی بزرگ کا مر جانا۔
 سر سے سر جوڑنا۔ (۱) صلاح مشورہ کرنا (۲) صلح کرنا۔
 سر سے سرواگیا ہے۔ (۱۔ مثل) گھر کے مالک سے گھر کا انتظام ہوا کرتا ہے (۲) سر دار کے ساتھ حکومت ہے۔
 سر سے کفن باندھنا۔ (۱۔ محاورہ) مرنے کے لیے تیار ہونا۔ بتیلی پر سر رکھ لینا۔
 سر سے گنواں کھو دونا۔ (۱۔ محاورہ) ناکامی کا انجام دینا۔
 سر سے کھیل جانا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) اہتہا فی دیرری دکھانا (۲) مرنے پر آمادہ ہونا۔
 سر سے کھیلنا۔ (۱۔ محاورہ) جن یا مخلوق پریت کے اثر سے سر دھننا۔
 سر سے لگڑ جانا، گزرتا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) اہتہا کو پہنچ جانا (۲) لاک ہو جانا (۳) مردم ڈباؤ پانی ہونا۔
 سر سے لگنا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) غصہ آنا (۲) ناگوار گزرتا۔
 سر سے مارنا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) خشکی کی وجہ سے چیز لوٹا دینا (۲) اٹھا کر پھینک دینا (۳) بے ناڈہ ذمے ڈالنا (۴) سر سے ٹکرانا۔
 سر سے میللا ہونا۔ (۱۔ محاورہ) حیرت کی حالت میں ہونا۔
 سر سینکنا ہونا۔ کوئی خاص بات ہونا۔ پہچان یا شناخت کی کوئی خاص علامت ہونا۔
 سر صدقے۔ (۱۔ متعلق فعل) کچھ پروا نہیں۔ بلا سے۔ کسی چیز کے گم ہو جانے پر کہتے ہیں۔
 سر غذاب لینا۔ (۱۔ محاورہ) مشکل کام اپنے ذمے لینا۔
 سر فدا کرنا۔ (۱۔ محاورہ) کسی کے واسطے مرنا۔ کسی کے لیے جان قربان کرنا۔
 سر قدم پر رکھنا۔ (۱۔ محاورہ) منت سماجت کرنا (۲) بہت عزت کرنا۔
 سر قلم کرنا۔ (۱۔ محاورہ) سر کاٹنا۔ قتل کرنا۔
 سر کا بوجھ اترنا۔ قرض ادا ہونا۔ ذمہ داری سے خارج ہونا۔

سر کا بوجھ پاؤں پر پڑنا ہے۔ (۱۔ مثل) اپنیوں کا درد اپنیوں ہی کو محسوس ہوتا ہے۔
 سر کا بوجھ ٹالنا۔ (۱۔ محاورہ) بے دلی سے کوئی کام کرنا۔
 سر کا پسینہ اڑی تک آنا۔ (۱۔ مثل) بہت سخت مشقت کرنا۔
 سر کا چھدا اُتارنا۔ (۱۔ محاورہ) احسان اُتارنا۔ جگہ شکوہ دفع کرنا۔
 سر کا نہ پاؤں کا۔ (۱۔ صفت) بے سرو پا۔ نہ آغاز نہ انجام۔ لغو۔
 سر کا وبال ہونا۔ (۱۔ محاورہ) دُوبھر ہونا۔
 سر کرنا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) فتح کرنا (۲) ذمہ دار بنانا۔ لڑانا۔ بھڑانا (۳) چوٹی گوندھنا (۴) تاش یا گینچے کی بازی جیتنا (۵) سر کو اندر گھسیڑنا۔
 سر کو آنا۔ (۱۔ محاورہ) سر ہونا۔ پیچھے پڑنا۔
 سر کھانا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) منز چاشنا۔ بک بک کیے جانا (۲) پریشان کرنا۔
 سر کہاں پھوڑوں۔ (۱۔ محاورہ) کہاں تلاش کروں (۲) کس سے فریاد کروں۔
 سر کھپ۔ (۱۔ صفت) (۱) جاں نثار (۲) محنت و مشقت میں مصروف رہنے والا۔
 سر کھینا نا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) منز مارنا (۲) کوشش کرنا۔
 سر کھانے کی فرصت نہ ہونا۔ (۱۔ محاورہ) بہت مصروف ہونا۔
 سر کھلنا۔ (۱۔ محاورہ) سر پھٹنا۔ کھوپڑی کی ہڈی ٹوٹنا۔
 سر کھولنا۔ (۱۔ محاورہ) سر تنگ کرنا۔ بال پھیلانا (۲) کوئی سخت چیز مار کر سر پھوڑ دینا۔
 سر کھینچنا۔ (۱۔ محاورہ) سر کشی کرنا (۲) سر ایک طرف کر لینا۔
 سر کی آفت ٹلنا۔ (۱۔ محاورہ) مصیبت دُور ہونا۔
 سر کے بل۔ (۱۔ متعلق فعل) سر کے سہارے (۲) نہایت ادب سے۔ بڑی عزت سے۔
 سر کے زور۔ (۱۔ متعلق فعل) پوری کوشش سے۔
 سر کے ساتھ ہونا۔ (۱۔ محاورہ) جان کے ساتھ لگا ہونا۔
 سر کاڑھی پاؤں (پیسر) پیسہ کرنا۔ نہایت محنت سے کام کرنا۔
 سر کا لامنتہ بال۔ (مثل) (۱) بڑھاپے میں جوانوں جیسی نادانیاں (۲) سر سفید ہو گیا ہے۔ بگڑ چرے پر جوانی برسی ہے۔
 سر گرنا۔ (۱) سر جھینٹا جانا۔ سر میں درد ہونا (۲) سر زمین کی طرف جھکنا۔
 سر گریبان میں ہونا۔ (۱۔ محاورہ) متکبر ہونا۔ شرمندگی ہونا۔
 سر گنجا کرنا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) مارا کر سر کے بال اُڑا دینا (۲) مخلص کر دینا۔
 سرٹ کھانا۔
 سر گوندھنا۔ (۱۔ محاورہ) گلگی چوٹی کرنا۔
 سر گھنوں میں دینا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) بے دلی ہونا (۲) متکبر ہونا (۳) شرمندہ ہونا۔
 سر گھومنا۔ (۱۔ محاورہ) سر پھرتا۔ پاگل ہو جانا۔ بگڑنا۔ دوران سر ہونا۔
 سر لگنا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) بہت لگنا (۲) ذمے پڑنا۔
 سر لینا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) ذمہ لیتا (۲) سر کاٹنا۔ جان سے مارنا۔
 سر مارنا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) زبردستی دینا۔ بلا مرضی دینا۔ سر دھننا (۲) منز زنی کرنا۔ سمجھانا (۳) سر دے دے مارنا۔ سر کھینکا۔ سر دھننا (۴) جان لڑانا۔
 سر پھریں کرنا (۱) ڈھونڈنا۔ تلاش کرنا۔
 سر سندا آتے ہی اولے پڑے۔ (۱۔ مثل) (۱) کام شروع کرتے ہی نقصان

ہو۔ ابتدا ہی سے کام میں خرابی پیدا ہوگئی۔

سمر منڈانا۔ (۱) سر کے بال اتر دانا (۲) جوگی بنا۔ فقیر بنا (۳) دھوکے میں

آکر لٹ جانا۔
سمر موٹو کر گیا کھٹنا موٹو سے گا۔ (دش) اتنا نقصان پہنچا چکا اب اور

کیا بگاڑے گا۔
سمر موٹو نہا۔ (۱) محاورہ (۲) محاممت بنانا (۳) ٹھگنا۔ ٹوٹنا۔ فریب سے

مال کھانا۔
سمر میللا ہونا۔ (۱) محاورہ (۲) جھینس کے باعث ناپاک ہونا۔ ایام سے ہونا۔

پکڑوں سے ہونا۔
سمر میں خاک ڈالنا۔ (۱) محاورہ (۲) ماتم کرنا۔ رنج کرنا۔ سوگ کرنا۔

سمر میں خنقاس سنانا۔ (۱) محاورہ (۲) غرور یا تکبر کرنا۔
سمر میں سودا ہونا۔ (۱) محاورہ (۲) جھپٹ ہونا۔ کسی بات کی دھن ہونا۔

سمر نقدہ ٹوکری اُدھار۔ (۱) شل، کام زیادہ سے زیادہ سختی سے لیا جاتا ہے

مگر تنخواہ دقت پر نہیں ملتی۔
سمر نہ (اٹھانے) اٹھنے دینا۔ (۱) محاورہ (۲) سرکشی نہ کرنے دینا۔ برابری

نہ کرنے دینا۔ مجبور رکھنا (۲) خدمت نہ دینا۔
سمر لوٹا (نہوڑانا) نہوڑانا۔ سمر نیچا کر لینا۔ سمر جھکانا۔

سمر نہیں یا سمر وہی نہیں۔ (۱) بیش، حق حاصل کر کے رہیں گے یا جان

دے دیں گے۔
سمر لاکھڑے لیے پھرنا۔ (۱) محاورہ (۲) جان دینے پر تیار ہونا۔

سمر ہو جانا یا ہونا۔ (۱) منکر کرنا (۲) پیچھے پڑ جانا (۳) کسی پر غصہ آنا۔

سمر نہ اٹھنا۔ (۱) محاورہ (۲) شرمندگی یا کسی کے احسان کے باعث سمر نیچا رہنا۔

سمر نہ پیر۔ (۱) تاج فعل) بے تکا۔ بے ترتیب (۲) آغاز نہ انجام۔

سمر نیچا ہونا۔ (۱) محاورہ (۲) شرمندہ ہونا۔ منلوب ہونا۔ زک اٹھانا۔

سمر و بال دوش ہونا۔ (۱) محاورہ (۲) جھینس سے بیزار ہونا۔ مرنے پر آمادہ ہونا۔

سمر جھٹلی پر رکھنا۔ (۱) محاورہ (۲) جان دینے کو تیار ہونا۔

سمر۔ (۱) مذ۔ بھید۔ راز (فارسی اور اردو میں بلا تشدید مستعمل ہے)۔

سمر۔ (۱) مذ۔ بھید۔ راز (فارسی اور اردو میں بلا تشدید مستعمل ہے)۔

سمر۔ (۱) مذ۔ بھید۔ راز (فارسی اور اردو میں بلا تشدید مستعمل ہے)۔

سمر۔ (۱) مذ۔ بھید۔ راز (فارسی اور اردو میں بلا تشدید مستعمل ہے)۔

سمر۔ (۱) مذ۔ بھید۔ راز (فارسی اور اردو میں بلا تشدید مستعمل ہے)۔

سمر۔ (۱) مذ۔ بھید۔ راز (فارسی اور اردو میں بلا تشدید مستعمل ہے)۔

سمر۔ (۱) مذ۔ بھید۔ راز (فارسی اور اردو میں بلا تشدید مستعمل ہے)۔

سمر۔ (۱) مذ۔ بھید۔ راز (فارسی اور اردو میں بلا تشدید مستعمل ہے)۔

سمر۔ (۱) مذ۔ بھید۔ راز (فارسی اور اردو میں بلا تشدید مستعمل ہے)۔

سمر۔ (۱) مذ۔ بھید۔ راز (فارسی اور اردو میں بلا تشدید مستعمل ہے)۔

سمر۔ (۱) مذ۔ بھید۔ راز (فارسی اور اردو میں بلا تشدید مستعمل ہے)۔

سمر۔ (۱) مذ۔ بھید۔ راز (فارسی اور اردو میں بلا تشدید مستعمل ہے)۔

سمر۔ (۱) مذ۔ بھید۔ راز (فارسی اور اردو میں بلا تشدید مستعمل ہے)۔

سمر۔ (۱) مذ۔ بھید۔ راز (فارسی اور اردو میں بلا تشدید مستعمل ہے)۔

سمر۔ (۱) مذ۔ بھید۔ راز (فارسی اور اردو میں بلا تشدید مستعمل ہے)۔

سمر۔ (۱) مذ۔ بھید۔ راز (فارسی اور اردو میں بلا تشدید مستعمل ہے)۔

سمر۔ (۱) مذ۔ بھید۔ راز (فارسی اور اردو میں بلا تشدید مستعمل ہے)۔

سمر۔ (۱) مذ۔ بھید۔ راز (فارسی اور اردو میں بلا تشدید مستعمل ہے)۔

سمر۔ (۱) مذ۔ بھید۔ راز (فارسی اور اردو میں بلا تشدید مستعمل ہے)۔

سمر۔ (۱) مذ۔ بھید۔ راز (فارسی اور اردو میں بلا تشدید مستعمل ہے)۔

سمر۔ (۱) مذ۔ بھید۔ راز (فارسی اور اردو میں بلا تشدید مستعمل ہے)۔

دُم والی گائے۔

مسرانا - دق (مص) مسراہتا - تعریف کرنا۔

مسرانا - (س۔ نا۔ نا) (۱) ہمس (۲) ٹھنڈا کرنا - سرگردنا (۳) متبرک چیزوں کو دریا میں ڈھلوانا - عزق کرنا۔

مسراؤک - مسراؤکی - (س۔ را۔ ڈک) (س۔ را۔ ڈک) (۱) مذ (۲) میں یا بڈھ مت کا پیرو۔

مسراوان - (۱-۱۰) مذ (۱) لکڑی کا ایک آلہ جس سے زمین ہموار کی جاتی ہے (پ) ہسارگ مسراہتا - (س۔ را۔ نا) (۱) ہمس (۲) تعریف کرنا (۳) قدر کرنا - داد دینا - (۳) چاہوسی یا خوش مدد کرنا۔

مسراہت - (س۔ را۔ نیت) (۱) معش (۲) تاثیر کرنا (۳) سہا جانا - نفوذ کرنا۔

مسراہت کرنا - (۱) محاورہ (۲) جذب ہونا - زینا (۳) اثر کرنا - گھسنا۔

مسرہب - (۱) معص (۲) سارا - تمام - پورا - کل۔

مسرہب گہن - (۱) مذ (۲) چاند یا سورج کا پورا گہن۔

مسرہب - (۱) مذ (۲) سیسہ - رستہ - جست سے ملتی جلتی دھات۔

مسرہب ہونا - دق (مص) مقابل ہونا - برابری کرنا۔

مسرہبند - (۱) معش (۲) دستار - پٹوئی۔

مسرہبلی - (س۔ بھینگی) (۱) مذ (۲) ہندو فقیروں کا ایک فرقہ جو ذات پات اور حرام و حلال میں تمیز نہیں کرتا۔

مسرہب - (۱) مذ (۲) ساٹھ (۳) کینڑ رکھنے والا۔

مسرہبت - (س۔ پت) (۱) معش (۲) ایک قسم کی گھاس - پتاور۔

مسرہبٹ - (س۔ بٹ) (۱) معش (۲) گھوڑے کی نہایت تیز دوڑ۔

مسرہبٹ دوڑانا - (۱) محاورہ (۲) گھوڑے کو نہایت تیز دوڑانا - بگ ٹٹ دوڑانا - بے دھڑک دوڑانا۔

مسرہبٹو کا - (س۔ چوک) (۱) مذ (۲) ایک قسم کی گھاس جو معنی خوں ہے۔

مسرہت - (س۔ زت) (۱) معش (۲) دھیان - خیال - چیتا - سگدھ (۳) ہوشیاری (۴) محافظہ یا دواداشت (۵) عقل - سمجھ۔

مسرہت آنا - (۱) محاورہ (۲) ہوش آنا - سگدھ آنا - خیال ہونا۔

مسرہت ہسارنا - (۱) محاورہ (۲) حواس باختہ ہونا - ہوش کھونا۔

مسرہتا - (س۔ تا) (۱) معص (۲) ہوشیار - چوکس - باخبر (۳) ذہین - دانہ۔

مسرہتا برتنا - (س۔ برتا) (۱) معش (۲) مذ (۳) انتظام - بندوبست کسی کام کا سرانجام (۴) خرچ - صرف (۵) جھٹہ - بجز۔

مسرہتا برتنا کرنا - (۱) محاورہ (۲) انتظام کرنا (۳) برتنا (۴) بانٹ لینا۔

مسرہتول - (دق - معص) (۱) ہم پٹہ - ہم مقابلہ - برابر کا (۲) عاجز۔

مسرہتی - (دق) پھر سے - از سر نو۔

مسرہتیچھ - (ق) ازل سے - ابتدا سے۔

مسرہتیٹ - (Certificate) (س۔ تیٹ) (۱) معش (۲) کیٹ (۳) ڈاک (۴) پروانہ - سند۔

مسرہجانا - دق (مص) ہمت ہوجانا پورا ہوجانا - تمام ہوجانا۔

مسرہجری - (Surgery) (س۔ ری) (۱) ڈاک (۲) معش (۳) جراحی

مسرہجن - (Surgeon) (س۔ جن) (۱) ڈاک (۲) ماہر جراحی - جرح۔

مسرہجن - (س۔ جن) (۱) معش (۲) معزز آدمی - شریف یا بھلا آدمی - بھلا مانس - سبب (۳) خدا۔

مسرہجن مار - خاق - بنانے والا - پیدا کرنے والا۔

مسرہجنا - (س۔ سج) (نا) (دق) معص (۱) پیدا ہونا۔

مسرہجی - (دق) پیدا کی جوتی۔

مسرہجیون - (س۔ جی - ون) (۱) معص (۲) سرسبز - شاداب (۳) پائے دار - مضبوط - لازوال (۴) لذتیں (۵) روح افزا - فرحت بخش (۶) ہمیشہ شاداب رہنے والا (۷) گلاب - مرطوب۔

مسرہجارج - (Surcharge) (س۔ جارج) (۱) ڈاک (۲) مذ (۳) نامزد رقم (۴) وصول کی جائے) مزید رقم کا بار (۵) بجلی کی فاضل رو۔

مسرہجائی - (دق) معص (۱) گنجا۔

مسرہجوت - (دق - معش) (۱) مشکل (۲) ہزاری۔

مسرہج - (دق - معص) (۱) لال - (۲) گھونچلی - رتی بھر - ماشے کا آٹھوں جتہ - آٹھ جادل کا وزن۔

مسرہج باد - مسرہج بادہ - (۱) مذ (۲) ایک بیماری جس میں سارے جسم پر لال لال پٹے ہو جاتے ہیں۔

مسرہج بید - (۱) مذ (۲) بید کی ایک قسم جس کا رنگ مسرہج ہوتا ہے (۳) ایک بوٹی کا نام۔

مسرہج خا - (۱) مذ (۲) ایک قسم کا آم (۳) ایک قسم کا کبوتر (۴) ایک قسم کا گھوڑا (۵) طنز کی روشنی۔

مسرہج خرو - (دق - معص) (۱) کامیاب - عزت و آبرو حاصل کرنے والا۔

مسرہج خرو ہونا - (۱) محاورہ (۲) کامیاب ہونا - عزت حاصل کرنا (۳) بری الذمہ قرار دیا جانا (۴) وعدے پر پورا اترنا - سچا نکلنا۔

مسرہج خرونی - (۱) معش (۲) کامیابی - عزت - آبرو۔

مسرہج خندتہ - (۱) معش (۲) مضابطہ پرستی - دفتری طوالت - بلا وجہ کی مین سیخ۔

مسرہج وسیند ہونا - (۱) محاورہ (۲) گورے رنگ پر مسرہجی جھلکانا (۳) معص مند ہونا۔

مسرہج ہونا - (۱) محاورہ (۲) لال ہونا (۳) سختے سے پیرو مسرہج ہوجانا (۴) میوے کا پک جانا (۵) کسی چیز کا گھی میں چھن کر لال ہو جانا۔

مسرہج خاب - (س۔ خاب) (۱) مذ (۲) چکا چکوی - ایک آبی پر بند۔

مسرہج خاب کے پر لگنا - (۱) محاورہ (۲) کوئی خاص امتیاز یا وصف ہونا (۳) اونٹنی بات ہونا - سخی چیز شامل ہونا - مسخر ہونا۔

مسرہجی - (س۔ جی) (۱) معش (۲) لالی - لال رنگت (۳) لال روشنی (۴) اینٹ کا بڑا (۵) عنوان (۶) ناخوان اور ہونٹوں کو مسرہج کرنے کا ایک مسالہ - خوردوں کا ایک سنگار۔

مسرہجی دینا - (۱) محاورہ (۲) مسرہجی قائم کرنا - عنوان خیر کرنا - عنوان تجویز کرنا۔

مسرہجی مائل - (۱) معص (۲) لال - لالی لے ہوئے۔

مسرہج - (دق - معص) (۱) ٹھنڈا (۲) بے رونق - بے لطف (۳) دھیما (۴) افسردہ۔

(۵) بے جس - غیر مزبانی (۶) بے جان - مُردہ -
 سرد آئینہ - (ت - ۱ - ۱) مذ (۱) تَخَانَة (۲) جبر و پستی زندگی میں تیار کردنی
 جاتی ہے -
 سرد آلہ - (ت - ۱ - ۱) مذ (۱) تَخَانَة (۲) جبر و پستی زندگی میں تیار کردنی
 سرد آور - (اصطلاح کیمیا) ٹھنڈا کرنے والا - جمانے والا ریفریجریٹسٹ -
 (Refrigerant)
 سرد بازاری - (تجارت) مندا قیمت کا یکایک گرجانا - کساد بازاری -
 سرد ذخیرہ - (ت - ۱ - ۱) مذ (۱) کیمیاوی اصطلاح (تَخَانَة) میں ذخیرہ کرنا -
 (Cold Storage)
 سرد جنگ - (ت - ۱ - ۱) مذ (۱) دیکھے اعصابی جنگ (دنگ)
 (Coldwar)
 سرد مزاج - (ت - ۱ - ۱) صفت (۱) ٹھنڈی طبیعت والا - مُردہ دل (۲) سخت
 افسردہ خاطر (۳) بے مروت - بے مہر -
 سرد مہر - (ت - ۱ - ۱) صفت (۱) بے مروت - بے وفا (۲) ظالم - دل کا سخت -
 (۳) جو توجہ یا التفات نہ کرے -
 سرد مہری - (ت - ۱ - ۱) صفت (۱) بے مروتی - بے وفائی (۲) سنگ دلی (۳)
 بے التفاتی -
 سرد و گرم - (ت - ۱ - ۱) مذ (۱) سیخ و خوشی - نشیب و فراز - ادب و بیخ - تجربات -
 (۲) انقلابات زمانہ -
 سرد و گرم پھیلنا - (۱) عمارتوں زمانہ کا تجربہ کرنا - زمانے کی مصیبتیں اٹھانا
 سرد و گرم زمانہ چیشدہ - (ت - ۱ - ۱) صفت (۲) تجربہ کار - زمانے کے نشیب و فراز
 دیکھے ہوئے - ادب و بیخ کھے ہوئے -
 سرد (جو جانا) ہونا - (۱) عمارتوں (۱) ٹھنڈا ہو جانا - گرم نہ رہنا (۲) جان
 باقی نہ رہنا - مرجانا (۳) ماند پڑ جانا (۴) افسردہ ہو جانا -
 سردانا - (سرد - ۱ - ۱) نا (۱) اُڑ - (۱) مذ (۱) اصطلاح کیمیا) ٹھنڈا کرنا یا ہونا - جمانا -
 تبرید (دنگ) - (Refrigeration)
 سردی - (سردی - ۱ - ۱) صفت (۱) چوکھٹ کے اوپر کی لڑائی -
 سردہ - (سردہ - ۱ - ۱) صفت (۱) مذ (۱) خربوزے کے خاندان کا ایک
 بیٹا پیل -
 سردی رنگ - (سردی - ۱ - ۱) صفت (۱) اُڑ - (۱) صفت (۱) سردے کا سازگ
 سبزی مائل زرد رنگ -
 سردی - (سردی - ۱ - ۱) صفت (۱) مذ (۱) ٹھنڈ - خشکی - ٹھنڈک (۲) جاڑا -
 سرد موسم (۳) (اُڑ) زکام - نزہ (۴) بخار کی لپکھی -
 سردی پڑنا - (۱) عمارتوں جلا پڑنا - ٹھنڈ ہونا -
 سردی چڑھنا - (۱) عمارتوں لڑے سے بخار آنا -
 سردی کا مارا پینے - ان کا مارا نہ پینے - (۱) شش) چاچے کپڑا نہ ہو کر
 پیٹ کر دوئی مزدور چاہیے -
 سرد پانی - (سردی - ۱ - ۱) صفت (۱) مذ (۱) دو روپیہ فی فصل کی وہ رقم جو گاؤں
 کے مالک حکومت کو ادا کرتے تھے -
 سرد اس - (ت - ۱ - ۱) صفت (۱) یکساں -

سرس - (۱) صفت (۱) زیادہ (۲) بہتر - عمدہ (۳) اصلی - خالص -
 سرس - (سرس - ۱ - ۱) صفت (۱) مذ (۱) ایک درخت کا نام جس کے پھول بہت
 بھینے خوشبو دیتے ہیں -
 سرسام - (سرسام - ۱ - ۱) صفت (۱) مذ (۱) ایک بیماری جس سے دماغ
 میں درم آجاتا ہے -
 سرسہاوی - (۱ - ۱) صفت (۱) زمین کا ایک ماپ - ایک مربع کرم ساڑھے چار فٹ -
 سرستی - سرسوتی - (۱ - ۱) صفت (۱) مذ (۱) علم - ہنر - زبان کی دیوی -
 سرسوتی - (۱ - ۱) صفت (۱) مذ (۱) ساٹھ اور سات کا مجموعہ (۶۴) -
 سرسہر - (سرسہر - ۱ - ۱) صفت (۱) مذ (۱) ساٹھ اور سات کی آواز -
 سرسہرانا - (سرسہر - ۱ - ۱) صفت (۱) مذ (۱) جوا کا ساٹھ اور سات کی آواز
 کے ساتھ چلنا (۲) سانپ یا کسی کیڑے کا رنگنا -
 سرسہرہٹ - (سرسہر - ۱ - ۱) صفت (۱) مذ (۱) صفت (۱) ہوا چلنے
 سے ہتوں وغیرہ کے ہلنے کی آواز (۲) سانپ یا کیڑوں کے
 رینگنے کی آواز -
 سرسہری - (سرسہری - ۱ - ۱) صفت (۱) مذ (۱) آسان (۲) معمولی (۳)
 بے پروا (۴) جلدی کا (۵) دفتری اصطلاح (۶) عمل -
 سرسہری اختیارات - (۱ - ۱) صفت (۱) مذ (۱) بغیر تحقیقات حکم نافذ کرنے
 کے اختیارات -
 سرسہری (دیکھنا) نظر کرنا - (۱) عمارتوں جلدی میں ملاحظہ کرنا (۲) اجماع نظر لانا -
 سرسہری نالاش - (۱ - ۱) صفت (۱) مذ (۱) چھوٹی نالاش - اڈنے دھونے -
 سرسہری - (سرسہری - ۱ - ۱) صفت (۱) مذ (۱) ایک سرخ رنگ کا کپڑا
 جو اناج کو لگ جاتا ہے (۲) آتش بازی کی چھوٹا نذر - (۳) ایک کپڑا جس
 کے کاسٹے سے جلن پیدا ہوتی ہے (۴) بدن کی سناہٹ -
 سرسنگار - (۱ - ۱) صفت (۱) مذ (۱) ایک بلبے کا نام -
 سرسول - (سرسول - ۱ - ۱) صفت (۱) مذ (۱) رائی کی قسم کا ایک بیج جس کا تیل نکالتے
 ہیں جو کڑوا تیل کہلاتا ہے -
 سرسول پھولنا - (۱ - ۱) صفت (۱) مذ (۱) سرسول کے پودوں پر پھول آنا (۲) زرد
 ہی زرد نظر آنا -
 سرسول جمانا - (۱) عمارتوں (۲) تھیل پر کسی کام میں بہت جلدی کرنا (۳) سرسول اگانا -
 سرشار - (سرسشار - ۱ - ۱) صفت (۱) مذ (۱) مست - عمور - نشے میں چور -
 سرشاری - (سرسشاری - ۱ - ۱) صفت (۱) مذ (۱) مستی - مدہوشی -
 سرشت - (سرسشت - ۱ - ۱) صفت (۱) مذ (۱) خوی - خصلت - عادت - مزاج -
 (۲) خاصیت - خواص - خاصیت - گتھی (۳) خلقت - طینت - پیدائش -
 (۴) مخلوط بلا ہوا - مرکبات میں مثلاً نیک سرشت - بد سرشت -
 سرشتہ - (سرسشتہ - ۱ - ۱) صفت (۱) مذ (۱) سرشت کا مختلف - نمکہ -
 کچھری - شعبہ (۲) دستور - رواج (۳) مصدر سرشتن سے صفت)
 لایا ہوا - بلا جلا -
 سرشتہ دار - (ت - ۱ - ۱) صفت (۱) مذ (۱) سر دفتر - میر منشی -
 سرشک - (سرسشک - ۱ - ۱) صفت (۱) مذ (۱) آنسو - اشک - قطرہ -
 سرطان - (سرسرطان - ۱ - ۱) صفت (۱) مذ (۱) کیکڑا - آبی جاڑ (۲) ایک بون کا نام

سمرولہ - (س - رو - لا - وہ - ا - مذ) ایک قسم کی مٹائی۔
 سمرؤن - (وق - ا - مذ) کان - گوش۔
 سمروی - (س - رو - ہی) (وہ - ا - مٹ) ایک قسم کی سیدھی تلوار -
 ایک قسم کا خنجر۔
 سمرسے - (Survey) (سمر - وے) (انگ - ا - مذ) جائزہ -
 پیمائش - ناپ۔
 سمرویو - (Surveyor) (سمر - و - یز) (انگ - ا - مذ) ناظر -
 گرد اور پیمائش - امین پیمائش - پیمائش کرنے والا۔
 سمرلانا - (سمر - لا - نا) (وہ - ا - مذ) (ا) سر رکھنے کی جگہ (ا) بالیں -
 (ب) تیکہ۔
 سمرنج - سل - نوج - (سمر - نوج) (سکل - نوج) (وہ - ا - مٹ) سالے کی بوی -
 سمرجنگ - (سمر - ہنگ) (رف - ا - مذ) (ا) فوج کا سردار (ب) بہادر
 من چلا (ب) پیدل سپاہی (ب) قییب - بوجب دار (ب) پہلوان
 (ب) کوتوال۔

س - ر

سمری - (س - ری) (س - ا - مذ) (ا) تیر کاگز (ب) دف - ا - مٹ) سرداری -
 سمری - (س - ری) (وہ - ا - مٹ) (ا) ذبح کیے ہوئے جانور کا سر (ب) ایک
 عزت کا خطاب (ب) چھ مشہور راگوں میں سے ایک راگ (ب)
 طبیعت - مزاج۔
 سمری ٹیک - (وہ - ا - مٹ) (ا) سر گلانا خوشامد (ب) ورزش کی ایک قسم
 جس میں سر کے بل اٹھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔
 سمری - (سمر - ری) (ڈر - صفت) سمری - پاگل - دیوانہ۔
 سمرے - (س - رے) (وہ - ا - مذ) (ا) نی کس - نی آدمی جیسے آدمی سر سے - دوپہل
 (ب) اول - شروع - انتہائی حد - جیسے سر سے۔
 سمریا - (سمر - یا) (وہ - ا - مذ) (ا) دھات کی سلاخ (ب) سر کنڈا۔
 سمریا بان - (وق - ا - مٹ) (آفتابی پھتری۔
 سمریائی - (سمر - یا - نی) (سمریائی - ا - مٹ) ملک شام کی ایک قدیم زبان۔
 سمریت - (وق - ا - مٹ) لائڈی جس سے جنسی تعلق ہو - داشتہ۔
 سمریو - (س - ریو) (وہ - ا - مذ) (ا) جسم - بدن۔
 سمریکو - (س - ریو) (وہ - ا - مذ) تخت شاہی - مسند - گدی -
 بج - سمر - اہرہ۔
 سمریراوا - (رج - صفت) تخت نشین - برسر حکومت۔
 سمریش - (س - ریش) (رف - ا - مذ) (ا) گلابی بوڑھے کا لیس دار مادہ۔
 سمریشاؤ - (س - رے - شا - او) (ڈر - ا - مذ) (اصطلاح علم کیسا)
 (Gelatinisation) جانوروں کی ہڈیوں اور کھالوں سے چمپ دار
 مادہ پیدا ہونا۔
 سمریشائے والا - (س - رے - شا - نے - فا - لا) (ڈر - ا - مذ) (کیمیادی اصطلاح)
 (Gelatinising) وہ عمل جو جانوروں کی ہڈیوں اور کھالوں سے
 چمپ دار مادہ نکالنے کے لیے کیا جاتا ہے۔
 سمریلج - (س - ریلج) (رج - صفت) (ا) جلدی کرنے والا - جلد - شتاب - تیز -
 (ب) (اصطلاح عروض) ایک بحر۔

سمریح التی شیر - (رج - صفت) جلد اثر کرنے والا - تیز اثر دکانے والا۔
 سمریح الحکمت - (رج - صفت) جلد حرکت کرنے والا۔
 سمریح الزوال - (رج - صفت) جلد گھٹنے والا - جلد زائل ہونے والا۔
 سمریح الغم - (رج - صفت) تیز فہم - بات کو جلد سمجھنے والا۔
 سمریح الضم - (رج - صفت) زود بہضم - جلد چمکنے والا۔
 سمریکھا - (س - رے - کھا) (وق - صفت) شمس - مانند۔
 سمریلا - (س - ری - لا) (وہ - صفت) خوش لگو - خوش آواز۔
 سمریلا گلا - (وہ - ا - مذ) ایسا گلا ہو گانے کے لیے موزوں ہو - جس سے
 سمرٹیک ٹیک ادا ہوتے ہوں۔
 سمرطلی - (س - ری - لی) (وہ - ا - مٹ) (ریلی - موزوں - سمردار۔
 سمرطلی آواز - (رج - صفت) (ریلی آواز - گانے کے لیے موزوں آواز۔
 سمرطین - (س - برین) (رف - ا - مذ) پورٹھ۔
 سمرطوال - (س - ری - وال) (وق - ا - مذ) سردتر۔

سمرطہ - (وہ - ا - مٹ) جنون - دیوانگی - پاگل پن - خبط۔
 سمرٹرا - (س - ٹرا) (وہ - صفت) (ا) جو سڑ چکا ہو (ب) بوسیدہ خراب - بگڑا ہوا۔
 سمرٹرا - (س - ٹرا) (وہ - صفت) (ا) دیوانہ - پاگل - خبطی - سودانی (ب)
 اتق - بے وقوف۔
 سمرٹرا - (س - ٹرا) (وہ - ا - مٹ) (ا) لگانا کوڑے یا قہمی مارنے کی
 آواز - سٹاسٹ۔
 سمرٹراک - (س - ٹراک) (وہ - ا - مٹ) (ا) قہمی یا کوڑے کی آواز (ب)
 جلد - ٹرت۔
 سمرٹرانہ - (س - ٹرا - نا) (وہ - صفت) (ا) خراب کرنا - بدبو پیدا کرنا (ب) خیر اٹھانا -
 (ب) گلانا - بوسیدہ کرنا (ب) ڈالے رکھنا - رکھے رکھنا۔
 سمرٹراوند - (س - ٹراوند) (وہ - ا - مٹ) (ا) کسی چیز کے سڑنے کا
 عمل (ب) سڑنے کی بدبو - تصفح۔
 سمرٹراپ - (س - ٹراپ) (س - ٹراپ) (وہ - ا - مٹ) (ا) کسی رقیق چیز
 کے جلدی جلدی پینے یا کھانے کی آواز۔
 سمرٹریا - (س - ٹریا - پا) (وہ - ا - مذ) ایک ہی دفعہ بی جانے کی آواز۔
 سمرٹریٹا - (س - ٹریٹ - نا) (سمرٹراپ - نا) (وہ - صفت) جلدی پینا یا کھانا۔
 رقیق آدل بھی مستعمل ہے۔
 سمرٹراٹرا - (سمرٹراٹرا - سمرٹراٹرا) (س - ٹراٹرا - ٹراٹرا) (وہ - صفت) (صفت) (صفت) (صفت)
 پینے کی آواز۔
 سمرٹراٹرا - (ا - عدد) ساٹھ اور سات کا مجموعہ۔ (ب) (ب)
 سمرٹراک - (س - ٹراک) (ڈر - ا - مٹ) (ا) شارع عام - شاہ راہ۔
 سمرٹراگنا - (س - ٹراک - نا) (ا) نکل جانا - ہب کر جانا (ب) ناک کی رطوبت اڑنے
 کی طرف مینج لینا - پانی کی طرح بی جانا (ب) ٹولاریسیان سے نکالنا۔

سطح ہموار۔ (ع۔ ف۔ ا۔ مٹ) میدان۔ برابر جگہ۔
 سطحی۔ (ع۔ صفت) اُوپری۔ بالائی۔ جس میں گہرائی نہ ہو۔ بے وزن۔
 سطر۔ (ع۔ ا۔ مٹ) (۱) کیر۔ لائن۔ (۲) ریکھا (۳) قطار۔ صفت۔ سلسلہ۔
 سطوت۔ (سط۔ دت) (ع۔ ا۔ مٹ) (۱) قہر (۲) دیدہ۔ رُعب۔
 (۳) شان و شوکت۔
 سٹوپور۔ (سٹ۔ طوڑ) (ع۔ ا۔ مٹ) سطر کی جمع۔ سطر میں۔ لائیں۔ صغیر۔ قطار میں۔

سُکرا۔ (س۔ رال) (ع۔ ا۔ مٹ) ساس یا سسٹر کا گھر۔
 سُکرا ل کا کتا۔ (ا۔ مٹ) سُکرا ل میں رہنے والا داماد۔
 سسک۔ (س۔ ریک) (ع۔ ا۔ مٹ) (۱) سسکی۔ سسکی۔ پچھلی (۲) کٹنے کو
 جھٹانے کی آواز۔
 سسک سسک کر دم نکالنا۔ (۱) محاورہ) تھوڑا تھوڑا کر کے دم نکالنا۔ بڑی
 مشکل سے جان نکالنا۔
 سسکارنا۔ (س۔ کار۔ نا) (ع۔ مٹ) (۱) کٹنے کو کسی پر دوڑانے کے لیے مُنہ
 سے آواز نکالنا۔
 سسکارنا۔ (س۔ کار۔ نا) (ع۔ مٹ) (۱) پینے کو مُنہ کی آواز سے
 پیشاب کرنے کی ترتیب دینا (۲) کٹنے کو کسی پر دوڑانا (۳) سانپ
 کی طرح پھسکانا۔

س۔ع

سعادت۔ (س۔ عا۔ دت) (ع۔ ا۔ مٹ) (۱) اقبال مندی۔ خوش نصیبی۔
 نیک نعتی (۲) نیکی۔ بھلائی۔
 سعادت دارین۔ (ع۔ ا۔ مٹ) دونوں جہان کی بھلائی۔ دنیا و
 آخرت کی نیک نعتی۔
 سعادت مند۔ (ع۔ ف۔ ا۔ صفت) (۱) نیک نعت (۲) مطیع۔ فرمانبردار
 و فادار (۳) خدمت گزار۔
 سعادت مندی۔ (ع۔ ا۔ مٹ) (۱) نیک نعتی (۲) اطاعت۔
 فرماں برداری۔
 سعال۔ (ع۔ ا۔ مٹ) کھانسی۔

سسکاری۔ (س۔ کا۔ ری) (ع۔ ا۔ مٹ) (۱) سسکی (۲) کٹنے کو
 پکارنے یا جھٹانے کی آواز۔
 سسکتی گئی بلکتی آئی۔ (۱) مثل) بد نصیب کو کسی جگہ بھی نہیں ہیں۔
 سسکنا۔ (س۔ سگ۔ نا) (ع۔ مٹ) (۱) سسکیاں لینا (۲) مرنے والے میں
 بہت تھوڑی جان باقی ہونا (۳) کج چوسی کرنا۔ کڑی کڑی پر جان دینا۔
 سسکی۔ (س۔ کی) (ع۔ ا۔ مٹ) (۱) کسی تکلیف کی وجہ سے دانتوں کو
 پیچھ کر آواز نکالنا۔ آہ سرد۔
 سسکیاں بھرنانا یا لینا۔ (۱) محاورہ) رونے یا تکلیف کی حالت میں سسکیاں بھرنانا۔
 سسنا۔ (س۔ نا) (ع۔ مٹ) (۱) سسکتنا۔ معلوم ہونا۔

سعدت۔ (ع۔ ا۔ مٹ) مبارک (۲) نیک (۳) مبارک ستارہ زہرہ۔ نامید۔ جمع۔
 سعد الصغر۔ (ع۔ ا۔ مٹ) ستارہ مشتری۔ برہسپت۔
 سعد الکبر۔ (ع۔ ا۔ مٹ) ستارہ مشتری۔ برہسپت۔
 سعدی۔ (س۔ دی) (ع۔ ا۔ مٹ) (۱) سعد سے نسبت رکھنے والا۔
 (۲) گلستان دہلستان کے مصنف فارسی کے مشہور شاعر شیخ
 شرف الدین شیرازی کا تخلص۔ مصعب الدین لقب۔
 سعدین۔ (س۔ دین) (ع۔ ا۔ مٹ) دو مبارک ستارے زہرہ اور مشتری۔
 سعی۔ (ع۔ ا۔ مٹ) (۱) دوڑ دھوپ۔ کوشش۔ جدوجہد۔ محنت (۲)
 (۳) سفارش (۳) کئے کی دو پہاڑیوں معاصرہ کے درمیان دوڑنا۔
 بسکون دوم صبح۔ عوام کا مسور بھی بولتے ہیں۔
 سعی سفارش۔ (ع۔ ا۔ مٹ) (۱) کہنا سنانا۔ جدوجہد۔ کوشش۔
 سعی کرنا۔ (۱) محاورہ) کوشش کرنا۔ سفارش کرنا۔
 سعی لاج حاصل۔ (ع۔ ا۔ مٹ) (۱) نامشکور) بے نتیجہ دوڑ دھوپ۔

سشن۔ (Session) (س۔ سشن) (انگ۔ ا۔ مٹ) (۱) اجلاس
 عدالت۔ عدالت کی نشست (۲) عدالت فوج داری کے اجلاس
 کا زمانہ۔
 سشن جج۔ (Session Judge) عدالت فوج داری کا جج۔
 سشن کورٹ۔ (Session Court) (انگ۔ مٹ) سیشن جج کی پیری۔

س۔ط

سطح۔ (ع۔ ا۔ مٹ) (۱) کسی چیز کا بالائی حصہ (۲) کوٹھا۔ چھت (۳)
 میدان۔ ہموار جگہ۔

سطح آب۔ (ع۔ ا۔ مٹ) پانی کا بالائی حصہ۔ روئے آب۔
 سطح زمین۔ (ع۔ ف۔ ا۔ مٹ) زمین کا اُوپری حصہ۔ زمین کا فرش۔ بہر زمین
 سطح طبل۔ (ع۔ ا۔ مٹ) ڈھلوان یا ترچی سطح۔
 سطح مرتفع۔ (ع۔ ا۔ مٹ) پتھر جلی اور اُوچی زمین۔
 سطح مستوی۔ (ع۔ ا۔ مٹ) ہموار سطح۔ چورس جگہ۔

س۔ف

سفا۔ (ع۔ مبالغہ) خون بہانے والا (۲) آزادی دینے والا (۳) سعی (۴)

صبح (۵) پہلا بیاسی فیلفن۔

سفارت - (س۔ فـ) رت (دع۔ ا۔ مٹ) (۱) سفیر کا جہد (۲) بیٹی یا سفیر کے فرائض۔ ایک حکومت یا ملک کی طرف سے دوسری حکومت یا ملک کے پاس نامزدہ یا بیاسی بن کر جانا۔

سفارت خانہ - (س۔ فـ) ف۔ (۱) مذ۔ وہ عمارت جس میں سفیر اور اس کے عملے نے اپنا دفتر بنا رکھا ہو۔

سفارش - (س۔ فـ) رت (دع۔ ا۔ مٹ) (۱) کسی کے حق میں کلمہ نیر (۲) دلیل۔ امداد۔ سہارا (۳) سپردگی۔

سفارش نامہ - (س۔ فـ) مذ۔ سفارش کا خط یا پٹی۔

سفارشی - (س۔ فـ) فار۔ شی (دع۔ صفت) (۱) جس کی سفارش کی گئی ہو جو سفارش سے متعلق ہو۔

سفارشی ٹھکانہ - وہ ناہل جو سفارش کی وجہ سے ملازم ہو گیا ہو۔

سفاک - (س۔ فـ) فاک (دع۔ صفت) (۱) تم گری۔ بے رقم۔ ظالم۔ خون ریز۔ فونی۔ قاتل۔

سفاکی - (س۔ فـ) فاک (دع۔ ا۔ مٹ) (۱) تم گری۔ ظلم۔ خون ریزی۔

سفال - (س۔ فـ) فال (دع۔ ا۔ مٹ) (۱) ٹھیکری۔ ٹھیکرا (۲) اخروٹ۔

بادام و دینرو کا نول۔

سفالین - (س۔ فـ) لی (س۔ فـ) لین (دع۔ صفت) (۱) مٹی کا۔ مٹی سے بنا ہوا۔

سفاہت - (س۔ فـ) ہت (دع۔ ا۔ مٹ) (۱) کینہ پن۔ برذالت (۲) بے وقوفی۔ حماقت۔

سفہت - (س۔ فـ) ہت (دع۔ ا۔ مٹ) (۱) کینہ پن۔ برذالت (۲) بے وقوفی۔ حماقت۔

سفہت - (س۔ فـ) ہت (دع۔ ا۔ مٹ) (۱) کینہ پن۔ برذالت (۲) بے وقوفی۔ حماقت۔

سفہت - (س۔ فـ) ہت (دع۔ ا۔ مٹ) (۱) کینہ پن۔ برذالت (۲) بے وقوفی۔ حماقت۔

سفہت - (س۔ فـ) ہت (دع۔ ا۔ مٹ) (۱) کینہ پن۔ برذالت (۲) بے وقوفی۔ حماقت۔

سفہت - (س۔ فـ) ہت (دع۔ ا۔ مٹ) (۱) کینہ پن۔ برذالت (۲) بے وقوفی۔ حماقت۔

سفہت - (س۔ فـ) ہت (دع۔ ا۔ مٹ) (۱) کینہ پن۔ برذالت (۲) بے وقوفی۔ حماقت۔

سفہت - (س۔ فـ) ہت (دع۔ ا۔ مٹ) (۱) کینہ پن۔ برذالت (۲) بے وقوفی۔ حماقت۔

سفہت - (س۔ فـ) ہت (دع۔ ا۔ مٹ) (۱) کینہ پن۔ برذالت (۲) بے وقوفی۔ حماقت۔

سفہت - (س۔ فـ) ہت (دع۔ ا۔ مٹ) (۱) کینہ پن۔ برذالت (۲) بے وقوفی۔ حماقت۔

سفہت - (س۔ فـ) ہت (دع۔ ا۔ مٹ) (۱) کینہ پن۔ برذالت (۲) بے وقوفی۔ حماقت۔

سفہت - (س۔ فـ) ہت (دع۔ ا۔ مٹ) (۱) کینہ پن۔ برذالت (۲) بے وقوفی۔ حماقت۔

سفہت - (س۔ فـ) ہت (دع۔ ا۔ مٹ) (۱) کینہ پن۔ برذالت (۲) بے وقوفی۔ حماقت۔

سفہت - (س۔ فـ) ہت (دع۔ ا۔ مٹ) (۱) کینہ پن۔ برذالت (۲) بے وقوفی۔ حماقت۔

سفہت - (س۔ فـ) ہت (دع۔ ا۔ مٹ) (۱) کینہ پن۔ برذالت (۲) بے وقوفی۔ حماقت۔

سفہت - (س۔ فـ) ہت (دع۔ ا۔ مٹ) (۱) کینہ پن۔ برذالت (۲) بے وقوفی۔ حماقت۔

سفہت - (س۔ فـ) ہت (دع۔ ا۔ مٹ) (۱) کینہ پن۔ برذالت (۲) بے وقوفی۔ حماقت۔

سفہت - (س۔ فـ) ہت (دع۔ ا۔ مٹ) (۱) کینہ پن۔ برذالت (۲) بے وقوفی۔ حماقت۔

سفہت - (س۔ فـ) ہت (دع۔ ا۔ مٹ) (۱) کینہ پن۔ برذالت (۲) بے وقوفی۔ حماقت۔

سفہت - (س۔ فـ) ہت (دع۔ ا۔ مٹ) (۱) کینہ پن۔ برذالت (۲) بے وقوفی۔ حماقت۔

سفہت - (س۔ فـ) ہت (دع۔ ا۔ مٹ) (۱) کینہ پن۔ برذالت (۲) بے وقوفی۔ حماقت۔

سفرہ - (س۔ فـ) رت (دع۔ ا۔ مٹ) (۱) دسترخوان۔ توشہ دان (ف) (۲) 'س' کے پیش سے یعنی مقدم۔

سفری - (س۔ فـ) ری (دع۔ صفت) (۱) سفر سے متعلق (۲) مسافر (۳) زادراہ۔ توشہ سفر دار (۴) امرود۔

سفل - (س۔ فـ) فل (دع۔ صفت) (۱) پستی۔ نشیب (۲) چوک۔ فضند۔

سفلہ - (س۔ فـ) لہ (دع۔ صفت) (۱) کینہ۔ رذیل (۲) ادھما۔ کم ظرف۔ نالائق۔

سفلہ پرور - کینوں کو شہ لگانے اور صاحب بنانے والا۔ نالائقیوں کو درست رکھنے والا۔

سفلہ پن - (س۔ فـ) پن (دع۔ صفت) (۱) پستی کا۔ بچے کا (مغوی کی ہند) (۲) سفلہ کی تائینت۔

سفلہ (جادو) عمل - (س۔ فـ) فل (دع۔ صفت) (۱) مذ۔ وہ فن یا عمل جس میں خمیشت ارواح سے مدد لی جائے۔

سفلہ (نا) - (س۔ فـ) فل (دع۔ صفت) (۱) مذ۔ پھل یا گڑھ کی کھال پر جو گول گول ٹکڑے ہوتے ہیں ان میں سے ہر ایک کو سفلہ کہتے ہیں۔

سفلہ (س) - (س۔ فـ) فل (دع۔ صفت) (۱) مذ۔ پستی ہوئی چیز۔ برادہ۔ پلوڈر۔

سفلہ (س) - (س۔ فـ) فل (دع۔ صفت) (۱) مذ۔ پستی ہوئی چیز۔ برادہ۔ پلوڈر۔

سفلہ (س) - (س۔ فـ) فل (دع۔ صفت) (۱) مذ۔ پستی ہوئی چیز۔ برادہ۔ پلوڈر۔

سفلہ (س) - (س۔ فـ) فل (دع۔ صفت) (۱) مذ۔ پستی ہوئی چیز۔ برادہ۔ پلوڈر۔

سفلہ (س) - (س۔ فـ) فل (دع۔ صفت) (۱) مذ۔ پستی ہوئی چیز۔ برادہ۔ پلوڈر۔

سفلہ (س) - (س۔ فـ) فل (دع۔ صفت) (۱) مذ۔ پستی ہوئی چیز۔ برادہ۔ پلوڈر۔

سفلہ (س) - (س۔ فـ) فل (دع۔ صفت) (۱) مذ۔ پستی ہوئی چیز۔ برادہ۔ پلوڈر۔

سفلہ (س) - (س۔ فـ) فل (دع۔ صفت) (۱) مذ۔ پستی ہوئی چیز۔ برادہ۔ پلوڈر۔

سفلہ (س) - (س۔ فـ) فل (دع۔ صفت) (۱) مذ۔ پستی ہوئی چیز۔ برادہ۔ پلوڈر۔

سفلہ (س) - (س۔ فـ) فل (دع۔ صفت) (۱) مذ۔ پستی ہوئی چیز۔ برادہ۔ پلوڈر۔

سفلہ (س) - (س۔ فـ) فل (دع۔ صفت) (۱) مذ۔ پستی ہوئی چیز۔ برادہ۔ پلوڈر۔

سفلہ (س) - (س۔ فـ) فل (دع۔ صفت) (۱) مذ۔ پستی ہوئی چیز۔ برادہ۔ پلوڈر۔

سفلہ (س) - (س۔ فـ) فل (دع۔ صفت) (۱) مذ۔ پستی ہوئی چیز۔ برادہ۔ پلوڈر۔

سفلہ (س) - (س۔ فـ) فل (دع۔ صفت) (۱) مذ۔ پستی ہوئی چیز۔ برادہ۔ پلوڈر۔

سکٹ - (س۔کٹ) (ہ۔ا۔ہ) (ذ) مشکل - دشوار (۲) نزع کی حالت (۲)
 سکلیف - بد نصیبی -
 سکھ - (س۔کھ) (ق) (۱-۱۰) مٹ) حجاب -
 سکڑ - (س۔کڑ) (ہ۔ا۔۱) (ذ) (۱) زہرہ نہا ہید - ایک روشن ستارے کا نام -
 سگر - (س۔گ) (ذ) (۱) نمار - نشہ - بے ہوشی -
 سکرات - (س۔ک۔رات) (ذ) (۱) مٹ) جان کنی کی تکلیف -
 نزع کی حالت -
 سکرا منت - (سک۔رانت) (ہ۔ا۔۱) (ذ) (۱) سورج کا ایک بڑے سے دوسرے
 بڑے میں جانا - تخیل آفتاب (۲) ہندوؤں کا ایک تہوار -
 سکریپٹ - (Script) تحریر - دیکھئے اسکریپٹ -
 سکرٹ - (Skirt) لہنگا - سایا - دیکھئے اسکریٹ -
 سکریٹری - (Secretary) (ریک۔رے۔ٹ۔ری) (انگ۔انگ) ایف
 سمنڈ - دبیر - ناظر -
 سکریٹریٹ - (Secretariat) (ریک۔رے۔ٹے۔ری۔اٹ) (اٹ)
 (انگ۔۱۰۔ذ) (۱) سکریٹری کا دفتر - وہ عمارت جس میں حکومت
 کے سرکاری سکریٹریوں کے دفتر ہوں -
 سکرین (Screen) پردہ - دیکھئے اسکرین -
 سیکرین - (Saccharin) (انگ۔ذ) ایک سفید رنگ کا سفوف
 جو مصنوعی طور پر بنایا جاتا ہے اور چینی سے تقریباً پانچ سو گنا میٹھا ہوتا ہے -
 سکریپٹور - (س۔کریپٹور) (س۔کریپٹور) (ہ۔صفت) (۱) دور کا رشتہ ظاہر کرنے والا
 کلمہ - جیسے سگر دادا -
 سگر دادا - (ہ۔ا۔۱) (ذ) (۱) پردادا کا باپ -
 سکڑانا - (ہ۔ا۔۱) (ذ) (۱) پرانا کا باپ -
 سگرٹا - (انگ۔۱) (۱) (ہ۔صفت) تنگ - بچھا ہوا - سٹ ہوا -
 سگرٹو - (انگ۔ٹا۔ا۔۱) (ذ) (۱) (اصطلاح اصنافیت) انٹھن جو کڑاؤ
 گھٹنا - کم ہونا - سمٹنا (۲) (اصطلاح علم کیسا) ٹھہرنے کی حالت یا عمل -
 مادے کا مقدار کے لحاظ سے گھٹنا -
 سگرٹو - (س۔کریپٹور) (ہ۔صفت) (۱) سمٹنا - بچھنا - تنگ ہونا -
 سگرٹی - (انگ۔ری) (ہ۔صفت) تنگ - پیچی ہوئی -
 سگری پڑنا - (ہ۔صفت) وقت پیش آنا - دشواری ہونا (۲) مصیبت پڑنا -
 سکینڈ - (انگ۔سے۔ذ) (ہ۔ا۔۱) (ذ) (۱) فاقہ کشوں کی ایک گوت -
 سیکشا - (ریک۔شا) (ہ۔ا۔۱) (مٹ) (۱) تعلیم و تربیت - سکھانا پڑھانا (۲)
 نصیحت (۳) وید کا ایک حصہ -
 سیکل - (ق) (۱-۱۰) مٹ) زنجیر -
 سیکلا - (ریک۔لا) (ق) سب -
 سیکلڈ - (ق) خشک ہونٹ -
 سکنا - (انگ۔نا) (ہ۔صفت) (۱) لائق ہونا - قابل ہونا (۲) ملن ہونا -
 سکنا - (ریک۔نا) (صفت) (۱) آگ برپا یا جانا - پختہ ہونا - گزارا ہونا (۲)
 گرم ہونا - سیک لینا -

سکناات - (س۔ک۔ناات) (ذ) (۱-۱) (ذ) سکنتہ کی جمع (۱) دقتے -
 سکون - بھڑنا -
 سکینج زمین - (س۔کینج - زمین) (ذ) (۱-۱) مٹ) سرکہ یا نیبو کے عرق کا پکا
 ہوا شربت - سرکہ اور انگلیں (شہد) کے مرکب سرنگلیں سے
 عربی بنا ہوا -
 سکندر - (س۔کن۔ذ) (۱-۱) (ذ) (۱) فیلقوس شاہ مقدونیہ کا بیٹا - دنیا کا
 ایک مشہور فاتح، جس نے ہندوستان پر حملہ کیا اور پنجاب کے راجہ پورس
 کو شکست دی - اسے سکندر اعظم کہتے ہیں - کن تیا خوش نصیب -
 سکندری - (س۔کن۔ذ۔ری) (ذ) (۱) (صفت) (۱) سکندر کے متعلق (۲)
 (مٹ) گھوڑے کی گھوڑا (۳) مجاڈا بادشاہت -
 سکندری کھانا - (۱) (مجاڈا) گھوڑے کا گھوڑا کھانا -
 سیکنڈ - (Second) (س۔کنڈ) (انگ۔۱) (ذ) (۱) ثانیہ - لمحہ - لمحہ -
 (۲) اول کے بعد دوسرا (۳) (صفت) (۱) دوسرا - ثانی - دوم -
 سیکنڈ کلاس - (Second Class) (انگ۔۱) (ذ) (۱) دوسرا درجہ
 (۲) دوسرے درجے کا -
 سیکنڈ ہینڈ - (Second Hand) (انگ۔۱) (ذ) (۱) برتا ہوا استعمال
 سیکنڈری - (Secondary) (انگ۔صفت) (۱) ثانوی - تھانی -
 سکنتہ - (س۔ک۔ذ) (۱-۱) (ذ) (۱) ساکن کی جمع - باشڈے -
 سکنتہ - (س۔ک۔ذ) (۱-۱) (ذ) (۱) سکون کی جگہ - مکان -
 سکنی - (س۔ک۔نی) (ذ) (۱) (صفت) قابل رہائش -
 سکوت - (س۔کوت) (ذ) (۱-۱) (ذ) (۱) خاموشی (۲) امن -
 سکوت کا عالم - خاموشی کی حالت -
 سکوٹر - (Scooter) (انگ۔۱) (ذ) (۱) ایک قسم کا چھوٹے پتیلوں والا موٹر سیکل
 سکور - (Score) دیکھئے اسکور -
 سکورا - (س۔کو۔را) (س۔کو۔رہ) (ذ) (۱) مٹی کا پیالہ -
 سکورٹا - (اص) (۱) اٹھ پاول کا اکٹھا کر لینا - سکریٹ لینا -
 سکول - (School) مدرسہ - دیکھئے اسکول -
 سکون - (س۔کون) (ذ) (۱-۱) (ذ) (۱) ٹھیراؤ - قرار (۲) امن - خاموشی (۳)
 ساکن حرف کی علامت - جزم -
 سکون اور - (ذ) (۱-۱) (صفت) (۱) قرار لانے والی (اصطلاح علم کیسا) مسکن
 دوا یا مادہ -
 سکونٹ - (س۔کونٹ) (ذ) (۱-۱) (مٹ) (۱) لودو باش - مستقل قیام (۲)
 رہنے کی جگہ - مسکن - مکان - آقامت گاہ -
 سکونٹ پریر ہونا - (۱) (مجاڈا) بسنا - رہنا - بودو باش اختیار کرنا -
 سکونیات - (س۔کونی - یات) (ذ) (۱-۱) (ذ) (۱) (اصطلاح طبیعیات)
 وہ علم جس میں اجسام کی حالت سکون سے بحث کی جاتی ہے -
 سکویش - (Squash) (۱) (عق) شربت (۲) ایک کیبل بوریٹ اور نرم گیند
 سے کرسے کے اندر بننے ہوئے گول میں کھیلا جاتا ہے -
 سکھ - (ریک۔کھ) (ذ) (۱) (۱) گھٹیا - مزب - بچھا - نقش کیا ہوا - ڈھلا
 ہوا (۲) سرکاری منقش زرد رنگ میں پٹے - (۳) طرز روش - طریقہ - قانونی

کیم (Scheme) منصوبہ۔ تجویز۔ تدبیر۔ مصلحت۔ دیکھئے اسکیم۔
 سکنڈل (Scandal) (انگ۔ ا۔ مذ) شہرت۔ رسوائی۔ بدنامی۔ دیکھئے اسکینڈل۔
 سکین۔ (رنگ۔ بکین) (ر۔ ا۔ مٹ) چاقو۔ چھری۔
 سکینٹ۔ سکینٹ۔ (ر۔ ا۔ مٹ) آرام۔ سکون۔

س۔گ

سگ۔ (ف۔ ا۔ مذ) گنا۔
 سگ بازار۔ (ف۔ ا۔ مذ) وہ گنا جس کا کوئی مالک نہ ہو۔
 سگ باش برادر۔ خورد مباحث۔ (ف۔ مٹ) پھوٹے بھائی کی کوئی عزت یا توقیر نہیں ہوتی۔
 سگ تازی۔ (ف۔ مٹ) عربی نسل کا شکاری گت۔
 سگ حضور۔ یہ از برادر دور۔ (ف۔ مٹ) حاضر یا آنکھوں کے سامنے رہنے والے اور ادا نہ دہنے کے آدمی کی رعایت تھیقی عزیز سے زیادہ کرنی پڑتی ہے یا پاس رہنے والا غیر اور رہنے والے عزیز سے زیادہ فائدہ حاصل کر لیتا ہے۔
 سگ زرد و برادر شغال۔ (ف۔ مٹ) زرد گنا گیدڑ کا بھائی (۲) اس شخص کی بابت کہتے ہیں جو بدی میں دوسروں کی مانند ہو۔
 سگا۔ (س۔ گ۔ ا۔ ص) ایک ماں باپ کا۔ ایک خون۔ حقیقی (۲) بہت قریبی۔ اپنا۔ یگانہ۔ (۳) داماد (۴) پہاڑی قبائل میں اپنے گاؤں یا بستی کا۔
 سگے۔ شور۔ سے۔ (ف) خویش آثار۔
 سگار۔ (Cigar) (س۔ گار) (انگ۔ ا۔ مذ) پڑٹ۔ بڑا سگریٹ جو تباہ کا پتہ پیٹ لپٹ کر بنا یا جاتا ہے۔
 سگارٹ (سگارٹ)۔ (س۔ گارٹ) (س۔ گارٹ) (۲)۔ (۱)۔ مٹ) اپنایت رشتہ۔ ناتہ۔ قرابت۔
 سگال۔ (ف۔ لاحتہ) فاعل اسم فاعل ترکیبی بنا کر اندازہ کرنے والا یا چاہنے والا کے معنی دیتا ہے جیسے غیر سگال۔
 سگانہ۔ (س۔ گانہ) (ف۔ ص) اصطلاح علم کیمیا زمین کی تیسری تہ۔
 سگانی۔ (س۔ گانی) (۲)۔ (۱)۔ مٹ) سنگنی۔ نسبت۔ قرابت داری (ف)۔
 سگٹ۔ (ف۔ ص) کل۔ تمام۔
 سگرٹ۔ (Cigarette) (رنگ۔ زٹ) (انگ۔ ا۔ مذ) ہلکا پڑٹ۔
 گانڈ میں پٹی ہوتی تباہ کو کہتی۔
 سگس۔ (ف۔ ا۔ مذ) راحت۔ آرام۔
 سگسی۔ (رنگ۔ ہسی) (ف۔ ص) (۱) کابل۔ سست (۲) کابل۔ سست۔
 سگی۔ (ف۔ ص) سب۔ تمام۔ کل۔
 سگند۔ (س۔ گند) (۱)۔ مٹ) (۲) ہک۔ خوش بو (۳) سونڈھا۔ خوش بودار۔
 سگنل۔ (Signal) (رنگ۔ نئی) (انگ۔ ا۔ مذ) اشارہ۔

سگ (۱) (۲) (۳) (۴) (۵) (۶) (۷) (۸) (۹) (۱۰) (۱۱) (۱۲) (۱۳) (۱۴) (۱۵) (۱۶) (۱۷) (۱۸) (۱۹) (۲۰) (۲۱) (۲۲) (۲۳) (۲۴) (۲۵) (۲۶) (۲۷) (۲۸) (۲۹) (۳۰) (۳۱) (۳۲) (۳۳) (۳۴) (۳۵) (۳۶) (۳۷) (۳۸) (۳۹) (۴۰) (۴۱) (۴۲) (۴۳) (۴۴) (۴۵) (۴۶) (۴۷) (۴۸) (۴۹) (۵۰) (۵۱) (۵۲) (۵۳) (۵۴) (۵۵) (۵۶) (۵۷) (۵۸) (۵۹) (۶۰) (۶۱) (۶۲) (۶۳) (۶۴) (۶۵) (۶۶) (۶۷) (۶۸) (۶۹) (۷۰) (۷۱) (۷۲) (۷۳) (۷۴) (۷۵) (۷۶) (۷۷) (۷۸) (۷۹) (۸۰) (۸۱) (۸۲) (۸۳) (۸۴) (۸۵) (۸۶) (۸۷) (۸۸) (۸۹) (۹۰) (۹۱) (۹۲) (۹۳) (۹۴) (۹۵) (۹۶) (۹۷) (۹۸) (۹۹) (۱۰۰)

سگنل ڈاؤن ہونا۔ ریلوے کم کے ساتھ کا بیچا ہونا۔ ٹرین کو لائن کٹیر ہونے کا اشارہ ملنا۔ ریل کے آنے یا روانہ ہونے کا اشارہ ہونا۔
سگنل مین۔ (Signal Man) وہ آدمی جو سگنل اٹھاتا یا گرہاتا ہے۔
سگنلر۔ (Signaller) (سگ۔ ن۔ ل۔ ر) (انگ۔ ا۔ مذ) تار بابو۔
ٹیلیگراف کورک۔
سگنلر۔ (س۔ گھڑ) (وہ صفت) تیز وار۔ خوش سلیقہ۔ ذی شعور۔ دانش مند۔ صاحب تیز۔ کاریگر۔ دستکار۔ ہنرمند۔
سگنلر اپا۔ (سگنل۔ ٹرا۔ پا) (وہ۔ ا۔ مذ) سلیقہ۔ تیز۔ ہنرمندی۔ کاریگری۔
سگنلرانی۔ (رق۔ چترانی۔ ہوشیاری۔ ہنرمندی۔ دانائی)۔
سگنلر پن۔ (س۔ گھڑ۔ پن) (وہ۔ ا۔ مذ) (۱) سلیقہ۔ تیز۔ (۲) ہنرمندی۔ ہوشیاری۔
سگنلر ول۔ (رق) (سگنلر۔ باسلیقہ)۔
سگنلر ٹی۔ (وہ۔ ا۔ مٹ) ایک راگ بورات کے دوسرے پہر لگایا جاتا ہے۔

سگنل ڈاؤن ہونا۔ ریلوے کم کے ساتھ کا بیچا ہونا۔ ٹرین کو لائن کٹیر ہونے کا اشارہ ملنا۔ ریل کے آنے یا روانہ ہونے کا اشارہ ہونا۔
سگنل مین۔ (Signal Man) وہ آدمی جو سگنل اٹھاتا یا گرہاتا ہے۔
سگنلر۔ (Signaller) (سگ۔ ن۔ ل۔ ر) (انگ۔ ا۔ مذ) تار بابو۔
ٹیلیگراف کورک۔
سگنلر۔ (س۔ گھڑ) (وہ صفت) تیز وار۔ خوش سلیقہ۔ ذی شعور۔ دانش مند۔ صاحب تیز۔ کاریگر۔ دستکار۔ ہنرمند۔
سگنلر اپا۔ (سگنل۔ ٹرا۔ پا) (وہ۔ ا۔ مذ) سلیقہ۔ تیز۔ ہنرمندی۔ کاریگری۔
سگنلرانی۔ (رق۔ چترانی۔ ہوشیاری۔ ہنرمندی۔ دانائی)۔
سگنلر پن۔ (س۔ گھڑ۔ پن) (وہ۔ ا۔ مذ) (۱) سلیقہ۔ تیز۔ (۲) ہنرمندی۔ ہوشیاری۔
سگنلر ول۔ (رق) (سگنلر۔ باسلیقہ)۔
سگنلر ٹی۔ (وہ۔ ا۔ مٹ) ایک راگ بورات کے دوسرے پہر لگایا جاتا ہے۔

سلام۔ (س۔ لام) (وہ۔ ا۔ مذ) (۱) سلامتی (۲) تسلیم۔ آداب (۳) رخصت کرنا۔ الوداع (۴) بس۔ جائیے۔ صاف کیجیے (۵) کسی نے جو بات نہ مانی ہو اس کے پھور پذیر ہونے پر طنزاً آداب بجالانا (۶) خاتمہ نماز پر وائیں یا بیس منہ پھیرنا (۷) یلوسی کا اظہار (۸) غزل کے انداز پر وہ نظم جس میں واقعات کر بلا کا ذکر ہو (۹) کھڑے ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صلوة و سلام عرض کرنا۔
سلام پھیرنا۔ (۱) محاورہ) نماز ختم کرنا۔
سلام پیام۔ سلام پیشام۔ (وہ۔ صفت) ملگنی یا نسبت کی بات جیت۔
سلام دینا۔ (۱) محاورہ) (۱) انہوں کو کسی کو نذر بلوانا یا کوئی چیز لے کر تشریف اہلانے کی ہدایت کرنا (۲) رخصت یا وداع کرنا۔
سلام روستانی بے عرض نیست۔ (وہ۔ صفت) خوش آمد کرنے والے کا مزدور کوئی نہ کوئی مطلب ہوتا ہے۔
سلام شوق۔ (وہ۔ ا۔ مذ) محبت اور اشتیاق کا سلام۔
سلام (السلام) علیکم۔ (وہ۔ صفت) دعا تم پر سلامتی ہو۔ آنے والا جلس میں قدم رکھتے وقت یا کسی سے ملنے پر یہ کلمہ کہتا ہے۔
سلام علیکی۔ (وہ۔ صفت) صاحب سلامت۔ علیک سیک۔ جان پہچان۔
سلام کرانی۔ سلامی۔ وہ رقم وغیرہ جو رختی کے وقت دوہما کے سلام کرنے پر دوہما والوں کی طرف سے دی جاتی ہے۔
سلام کرنا۔ (۱) محاورہ) (۱) سمراتے یا بیسنے پر ہاتھ رکھنا۔ آداب بجالانا۔ (۲) رخصت ہونا۔ جانا (۳) مرتقلیم تم کرنا۔ مار ماننا۔ کسی کی بڑائی کا اعتراف کرنا۔ سمر ہنا (۴) دست بردار ہونا (۵) خیر باد کہنا۔
سلام لینا۔ (۱) محاورہ) (۱) سلام کا جواب دینا۔
سلام نیا۔ (وہ۔ صفت) (۱) عاجزی کا سلام (۲) بڑوں اور بزرگوں کے لیے) سلام ہونا۔ (۱) محاورہ) (۱) ملاقات ہونا (۲) رُوبو یا سانسے ہونا۔
سلام ہے۔ (۱) محاورہ) (۱) باز آئے۔ چھوڑا۔ دست بردار ہوئے (۲) خرابی چلے۔
سلامت۔ (س۔ لا۔ مٹ) (وہ۔ صفت) (۱) محفوظ۔ ہر بلا سے بچا ہوا (۲) میح۔ تن درست۔ پورا (۳) زندہ۔ حیات۔ موجود (۴) مبارک باد کا جواب۔
سلامت رومی۔ (وہ۔ صفت) (۱) مٹ) (۱) چلنے سے چلنا۔ کھاہت شاری اختیار کرنا۔ میانہ روی (۲) سیدھی راہ اختیار کرنا (۳) ایسا ڈھنگ جس سے کسی طرح کا الزام نہ آئے۔
سلامتی۔ (س۔ لا۔ مٹ) (وہ۔ صفت) (۱) مٹ) (۱) خیریت۔ عافیت۔ (۲) مخالفت۔ بچاؤ۔ محفوظ ہونا (۳) صحت۔ تندرستی (۴) زندگی۔ حیات (۵) دار) موجودگی (۶) قیام۔ برقراری۔

س۔ ل۔

س۔ ل۔ (وہ۔ ا۔ مٹ) (۱) ایک بیماری جس سے پھیپھڑوں میں زخم ہو جاتے ہیں اور سڑے خون آنے لگتا ہے۔ تپ دق (۲) درد (ق)۔
س۔ ل۔ (وہ۔ ا۔ مٹ) مصالحمہ پینے کا پتھر۔ پتھر کا لمبا پوڑا لکڑا جو عمارتوں میں لگایا جاتا ہے۔
سل بٹا۔ (وہ۔ ا۔ مذ) (۱) سل پر سال پینے کا پھوٹا پتھر۔
سل۔ سیلا۔ (س۔ ل۔) (وہ۔ ا۔ مذ) خوش۔ اناج کی وہ بایں جو فصل کھینے کے بعد کھیت میں پڑی رہ جاتی ہیں۔
سل جیت۔ (س۔ لا۔ جیت) (وہ۔ ا۔ مذ) سیاہ رنگ کا رقیق مادہ جو پتھر سے نکلتا ہے اور بطور دوا استعمال ہوتا ہے۔
سلح۔ (س۔ لا۔ ح) (وہ۔ ا۔ مذ) (۱) لڑائی کے ہتھیار (۲) اوزار۔
سلح بند۔ (وہ۔ صفت) ہتھیار لگانے ہوئے۔ مسلح۔
سلح خانہ۔ (وہ۔ صفت) (۱) میگزین۔ وہ عمارت جس میں ہتھیار جمع رہتے ہیں۔
سلح ساز۔ (وہ۔ صفت) ہتھیار بنانے والا۔
سلح شور۔ (وہ۔ صفت) (۱) بہادر سپاہی (۲) ہتھیار بند سپاہی (۳) میگزین کا دار و در۔
سلح۔ (س۔ لا۔ ح) (وہ۔ ا۔ مٹ) (۱) لہجے کی گول پتھر (۲) لکیر۔ دھار۔
سلحی گندھک۔ (س۔ لا۔ خ۔ گن۔ دھک) (وہ۔ ا۔ مٹ) (۱) اصطلاح علم کیسا، وہ گندھک جو سلاخوں کی شکل میں ہو۔
سلاد۔ (Salad) (س۔ لا۔) (انگ۔ ا۔ مذ) کچے ساگ اور ترکاریوں کا پکرایا کھا ہوا کھانے کے ساتھ کھایا جاتا ہے۔
سلامت۔ (س۔ لا۔ مٹ) (وہ۔ صفت) (۱) مٹ) (۱) روانی۔ ہمواری۔ کلام میں ثقیل لفظ نہ آنا۔ صفائی۔ فصاحت۔

سلا می - (س۔ لاء۔ می) (ر۔ ج۔ ف۔ ا۔ مٹ) (۱) تعظیم - سپاہ کا ہتھیار یا خاک
 تعظیم دینا (۲) توہین - بندوبست - گوشے جلا کر تعظیم کرنا (۳) نذرانہ -
 پیشکش (۴) ڈھال - ڈھلوان (۵) بھرتی (۶) وہ رقم جو بر وقت
 رضعتی دھن والے دولہا کو دیتے ہیں -
 سلا می آثارنا - (ع۔ محاورہ) بادشاہ یا حاکم وقت وغیرہ کی آمد پر توہین
 یا بندوبست سر کرنا -
 سلانا - سلوانا - (س۔ لاء۔ نا) (ر۔ ل۔ و۔ نا) (ر۔ و۔ مع) [ٹانچے لگوانا -
 بچہ کرانا -
 سلانا - سلادینا - (س۔ لاء۔ نا) (س۔ لاء۔ دے۔ نا) (و۔ مع) (۱) بھندیس
 ٹوکنا - پچے کو تھک تھک کر بندھ کر تعظیم دینا (۲) تیر میں
 رکھنا (۳) دفن کرنا - گاڑنا - دہانا (۴) زہر کھلا کر مار ڈالنا - گھاسٹ دینا -
 سلائی - (س۔ لاء۔ ای) (و۔ ا۔ مٹ) (۱) بولانے کی اہمیت (۲) سینا -
 سینے کا عمل -
 سلائی - (س۔ لاء۔ ای) (و۔ ا۔ مٹ) [دھات یا کڑی کی پتلی سلاخ -
 مڑ مڑ ٹٹانے کی گول پتلی سلاخ -
 سلائی پھرنا - (۱) محاورہ (۲) اگر گرم سلائی آنکھوں میں پیر کر اندھا کرنا
 (۳) رقم یا آنکھ میں سلائی گھمانا -
 سلب - (و۔ ا۔ مٹ) (۱) لے جانے یا مٹانے کا عمل - جذب کرنا -
 (۲) چھین لینا -
 سلیپ - (Slip) (س۔ لپ۔ پ) (۱) لنگ - (۲) مٹ - (۱) کاغذ یا کسی
 باریک چیز کا لمبا پڑھ یا پیٹی (۲) غلطی - سہو -
 سلیپٹ - (س۔ لپ۔ پٹ) (و۔ مع) (۱) صاف - (۲) ہموار (۳) اندھا (۳)
 شے ہونے نقوش کا (سکتہ) (۴) [اُر] بن ایڑی کی جوتی - انگریزی
 لفظ سلیٹر کا بگڑا ہوا لفظ (۵) ریل کی سڑک پر بچھا ہوا انگریزی کا تختہ -
 سلیپر (سینی شہتیر) کا بگڑا ہوا -
 سلچی - سلچی (س۔ لپ۔ پی) (س۔ لپ۔ پی) (اُر۔ ا۔ مٹ) [
 ماقدھونے کا برتن -
 سلٹنا - (س۔ لٹ۔ ٹ) (و۔ مع) (۱) جھگڑنا - باہم لے کرنا (۲) سیدھا کرنا -
 سلجوق - (س۔ لٹ۔ جوق) (و۔ ا۔ مٹ) [مذ] ترکوں کا ایک مشہور خاندان -
 سلجانا - (س۔ جھا۔ نا) (و۔ مع) (۱) گریں اور بیج کھولنا - اُلھاؤ دُور
 کرنا (۲) بچیدہ معاملے کی اُلجھیں دُور کرنا -
 سلجھنا - (۱) معنی حمل ہونا - آسان ہونا - سہل ہونا - کھلنا -
 سلجھاؤ - سلجھاؤ - (س۔ جھا۔ و) (س۔ جھا۔ و) (۱) فنیل - اُلجھن دُور ہونا -
 سلجھا ہوا سلجھا سلجھا یا - (۲) معنی تجربہ کار - آزمودہ کار -
 سلج - (س۔ لٹ۔ ج) (و۔ ف۔ ا۔ مٹ) (۱) ہتھیار - اذکار - آلات حرب (۲)
 ہلشاک - لباس -
 سلج پلوش - (و۔ ف۔ صفت) ہتھیار بند - مٹ -
 سلج - (و۔ ا۔ مٹ) (۱) قری سے سینے کا آخری دن (۲) کمال کھینٹنا -
 کمال آنا کرنا -
 سلفا - (و۔ صفت) صفات - صفات - میٹھاپانی -

سلسلُ البُولِ سلسلُ البُولِ (س۔ ل۔ بُولِ - بُولِ) (ر۔ ل۔ بُولِ) (۱) بُولِ (بُولِ) (۲)
 (و۔ ا۔ مٹ) [مذ] مٹانے کی ایک بیماری جس میں پیشاب بار بار قطو قطو
 کر کے آتا ہے -
 سلسبیل - (س۔ ل۔ بیل) (و۔ ا۔ مٹ) (۱) بشت کی ایک ہنر (۲)
 خوشگوار چیز (۳) شراب -
 سسلانا - (س۔ ل۔ ن۔ لاء۔ نا) (و۔ مع) [مذ] نرم نرم کھلی جونا (۱) رنگنا -
 کیڑوں کا ہیٹ کے بل چلنا -
 سسلہاہٹ - (س۔ ل۔ س۔ لاء۔ ہٹ) (و۔ ا۔ مٹ) (۱) کھلی - چل -
 (۲) درد (و۔ ا۔ مٹ) -
 سسلبل - (س۔ ل۔ س۔ لاء۔ ب) (و۔ ا۔ مٹ) (۱) زنجیر - پیرٹی (۲) قطار صفہ
 ٹی (۳) خاندان - نسل (۴) شجرہ (۵) ترتیب - درستی (۶) تعلق -
 واسطہ (۷) ملازمت کا تعلق - جمع : سسللا -
 سسلہ بندی - (و۔ ف۔ ا۔ مٹ) (۱) قطار بندی - ترتیب (۲)
 زین بندی - گرد پ بندی -
 سسلتہ الذہب - (و۔ مٹ) سسلتہ کی زنجیر - سہنری زنجیر (۲)
 کن بنا لائق فائق لوگوں کا گروہ -
 سسلہ توڑنا - (۱) محاورہ (۲) ترک تعلق کرنا -
 سسلہ نمنا - (و۔ مع) [مذ] تحریک چلانے والا - بات نکالنے والا -
 سسلہ چلنا - (۱) محاورہ (۲) کسی بات کا شروع ہونا (۳) نسل چلنا -
 سسلہ در سخنی (کلام) - (و۔ ا۔ مٹ) بیان کی ترتیب -
 سسلہ بکھوہ - (و۔ ا۔ مٹ) پہاڑوں کی قطار - وہ پہاڑ جو ایک دوسرے
 سے ملے ہوئے ہوں -
 سسلہ ملنا - (۱) محاورہ (۲) خاندانی تعلق ہونا -
 سسلہ نکالنا - (۱) محاورہ (۲) ذریعہ پیدا کرنا - طریقہ نکالنا -
 سسلہ نکلنا - (۱) محاورہ (۲) آغاز ہونا (۳) راہ نکلنا -
 سسلہ وار - (و۔ ف۔ صفت) ترتیب دار - درجہ کے لحاظ سے -
 نبر کے مطابق -
 سلطان - (س۔ طان) (و۔ ا۔ مٹ) [مذ] بادشاہ - فرماں روا - راجہ -
 سلطانیہ - (س۔ طانیہ) (و۔ ا۔ مٹ) [مذ] حکمرانی - بادشاہ کی بیگم -
 سلطانی - (س۔ طانیہ) (و۔ ا۔ مٹ) [مذ] بادشاہی - فرماں روائی حکومت -
 سلطنت - (س۔ ط۔ نت) (و۔ ا۔ مٹ) [مذ] بادشاہی حکومت - عمل داری -
 سلف - (س۔ لٹ۔ ف) (و۔ مع) (۱) گذشتہ - سابقہ - پہلے کا (۲) اگلے
 زمانے کے لوگ - جمع : سلفان -
 سلف - (س۔ لٹ۔ ف) (و۔ ا۔ مٹ) (۱) سودا - اسباب (۲) خریدنا ہوا سامان
 مرکب ہو کر آتا ہے جیسے سودا سلف (و۔ ا۔ مٹ) [مذ]
 سلفا - (س۔ لٹ۔ ف) (و۔ ا۔ مٹ) [مذ] ایک دفعہ چلم بھرنے کے قابل تباہ
 یا پرس -
 سلفا کر ڈالنا - (۱) محاورہ (۲) جلا کر خاک کر دینا (۳) فضول خرچی میں
 دولت برباد کر ڈالنا -
 سلفر - (Sulphur) (س۔ لٹ۔ ف) (و۔ ا۔ مٹ) [مذ] گندھک - کبریت -

سلفی - (ع۔ صفت) سلف سے منسوب (۲) اہل حدیث حضرات اپنے آپ کو سلف صالحین کا پیروگر دانستے ہوئے اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں۔

سلک - (ع۔ مذ۔ ۱) (۱) تاکا۔ دھاکا۔ ڈورا (۲) لڑی۔ لار (۳) ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ پردنا (۴) سلسلہ۔ قطار (۵) نظم۔

سلک - (Silk) (رنگ۔ ۱۔ مذ) (۱) ریشم۔

سلکمن - (رسل۔ لکمن) (ع۔ صفت) نیک بخت۔ نیک چلن۔

سلگ - (رسل۔ لگ) (ع۔ صفت) (۱) لگانا۔ مسلسل۔ برابر۔ ثابت۔ سالم۔

سلگ - (ع۔ صفت) (۱) مٹا۔ دوستی۔ بے تکلفی۔ محبت۔

سلگ دینا - (ع۔ صفت) (۱) مٹنے لگانا۔ بے تکلفی پیدا کرنا۔

سلگنا - (رسل۔ لگنا) (ع۔ صفت) (۱) آگ جلاتا یا روشن کرنا (۲) فسار دیا جھگڑا کرنا۔

سلگنا - (رسل۔ لگنا) (ع۔ صفت) (۱) آگ روشن ہونا (۲) آہستہ آہستہ دھواں بھگتا (۳) حسد سے بھگتا۔

سلگی - (رسل۔ لگی) (ع۔ صفت) (۱) سدا ہوا۔ سلیم الطبع (۲) دوستی۔

سلگی پینا - (ع۔ صفت) (۱) دوستی۔ بے تکلفی۔

سلم - (رسل۔ لم) (ع۔ صفت) (۱) مٹا۔ کسی چیز کی پیشگی قیمت دے دینا۔ اردو میں صرف بیع کے ساتھ استعمال ہے (بیع و سلم)۔

سلم - (رسل۔ لم) (ع۔ صفت) (۱) (اصطلاح کیسا) سالمہ مادہ۔ ذرہ۔ ریزہ۔

سلما - (رسل۔ ما) (ع۔ صفت) (۱) چاندی سونے کے تار جس کو بیٹ کر اور بیل دے کر لباس جو توں اور ٹوپوں وغیرہ پر لگاتے ہیں۔

سلمی - (ع۔ صفت) (۱) مٹا۔ عرب کی ایک حسین عورت کا نام (جہاننا) جمہورہ۔ مشرق۔

سلما - (رسل۔ ما) (ع۔ صفت) (۱) چھدنا۔ سوراخ ہونا۔

سلما - (رسل۔ ما) (ع۔ صفت) (۱) سیا جانا۔

سلو - (رسل۔ لو) (ع۔ صفت) (۱) آگ۔ مدہم۔ سست رفتار۔

سلو - (رسل۔ لو) (ع۔ صفت) (۱) آگ۔ جوا پڑا جس کو ڈورے کے بجائے استعمال کرتے ہیں۔

سلوگی (سلوائی) گھٹائی - (ع۔ صفت) (۱) ذرے چومنے کی سلوائی یا گھٹائی۔

سلوا - سلوئی - (رسل۔ وا) (ع۔ صفت) (۱) مذ۔ ایک قسم کا بیڑا۔

سلوانا - (رسل۔ وان) (ع۔ صفت) (۱) مٹا۔ لینے کے لیے دینا۔

سلوائی - (رسل۔ وائی) (ع۔ صفت) (۱) مٹا۔ چھید کرانے کی مزدوری۔

سلوائی - (رسل۔ وائی) (ع۔ صفت) (۱) مٹا۔ سلوانے کے نام۔

سلوتری - (رسل۔ وتی) (ع۔ صفت) (۱) مذ۔ گھوڑوں کا ڈاکٹر۔

سلوب - (Slop) (رنگ۔ ۱۔ صفت) ڈھلائی۔ نشیب۔

سلوٹ - (رسل۔ وٹ) (ع۔ صفت) (۱) مٹا۔ بل۔ پٹوس۔

سلوٹ - (Salute) (رسل۔ وٹ) (ع۔ صفت) (۱) سلام۔

آداب - سلیم (۲) فوجی سلام۔

سلور - (Silver) (رسل۔ ور) (ع۔ صفت) (۱) مٹا۔ چاندی۔ روپا۔

سلوشن - (Solution) (رسل۔ وشن) (ع۔ صفت) (۱) مذ۔ محلول۔

تخلیل کی کیفیت۔

سلوک - (رسل۔ لوک) (ع۔ صفت) (۱) راستہ چلنا۔ راہ طے کرنا (۲)

(اُر) برتاؤ۔ طرز عمل۔ رویہ (۳) دوستی۔ محبت (۴) امداد۔

(۵) بھلائی۔ نیکی۔ نیک روی (۶) (اصطلاح تعارف) حق تعالیٰ کا تقرب چاہنا۔ تلاش حق۔

سلول - (ع۔ صفت) خوش ادا۔

سلولائیڈ (Celluloid) (رسل۔ لو۔ لا۔ مٹ) (رنگ۔ ۱۔ مذ) ایک سالمہ جو مختلف چیزیں بنانے کے کام آتا ہے۔

سلون - (رسل۔ ون) (ع۔ صفت) (۱) مٹا۔ خوبصورت۔

سلونا - (رسل۔ ونا) (ع۔ صفت) (۱) نکین۔ نک آلود۔ نک دار۔ (۲) ساڈا گھنڈی۔

سلونو - (رسل۔ ونو) (ع۔ صفت) (۱) مٹا۔ سادوں کے بیٹے میں جہنڈوں کا ایک آوار جس میں رکھی بانڈھتے ہیں۔

سلونی - (ع۔ صفت) نکین۔ بیج۔ سانولی۔

سلنج - (رسل۔ نچ) (ع۔ صفت) (۱) مٹا۔ سالے کی بیوی۔

سلے - (ع۔ صفت) (۱) مذ۔ اسلمہ۔

سلی - (ع۔ صفت) (۱) مٹا۔ سلائی۔ پتلی۔

سلی - (رسل۔ لی) (ع۔ صفت) (۱) مٹا۔ استرا۔ چاقو وغیرہ تیز کرنے کی پتھری (۲) کڑھی کا موٹا تختہ (۳) مرغابی (۴) جھوسا ہوا اناج (اس میں بلا تشدید لام ہے)۔

سلیبس - (Syllabus) (رنگ۔ مذ) نصاب۔

سلیپر - (Sleep) (رسل۔ بی۔ پڑ) (رنگ۔ ۱۔ مذ) کڑھی کا وہ کھنڈا جس پر ریل کی پٹری رکھی ہوتی ہے۔

سلیپر - (رسل۔ بی۔ پڑ) اصل سلیپر (Slipper) (رنگ۔ ۱۔ مذ) زیر پائی ہلی اور کھلی جوتی جو موٹا گھر میں پہنتے ہیں۔

سلیٹ - (Slate) (رسل۔ لیٹ) (رنگ۔ ۱۔ مٹ) پتھر کی تختی۔

سلیس - (رسل۔ لیس) (ع۔ صفت) (۱) آسان۔ عام فہم زبان۔

سلیقہ - (رسل۔ لی۔ قہ) (ع۔ صفت) (۱) تیز۔ شور۔ بیاقت (۲) لکھنا۔

(۳) ہنر۔ دست کاری۔

سلیقہ مند (شعار) - (ع۔ صفت) (۱) تیز دار۔ لکھنا۔ ڈی شور۔ ہنرمند۔

سلیکشن - (Selection) (رسل۔ لیگ۔ شن) (رنگ۔ ۱۔ مذ) انتخاب۔ اختیار۔ پسند۔

سلیکم - (رسل۔ لیم) (ع۔ صفت) (۱) ٹھیک۔ درست۔ کامل۔ پورا (۲) سادہ دل۔ صاف دل (۳) حق درست۔ چنگا (۴) دار۔ سلیم۔ بروبار۔

خاریش - صلح پسند (۵) شہنشاہ جہانگیر کی عرفیت۔

سلیم الطبع - (ع۔ صفت) (۱) سلیم۔ نرم دل۔ دانش مند۔ دور اندیش۔

سلیم آشہی - (ع۔ صفت) (۱) مٹا۔ ایک قسم کی نازک خوبصورت جوتی۔

سلیمان - (رسل۔ ی۔ مان) (ع۔ صفت) (۱) مٹا۔ حضرت داؤد کے بیٹے اور بنی اسرائیل کے مشہور پیغمبر و بادشاہ۔ جنت۔ دانش اور حیوانات پر ان کی حکومت تھی۔

سلیمانی - (رسل۔ ی۔ مان) (ع۔ صفت) (۱) حضرت سلیمان سے منسوب (۲) ایک قسم کا دورنگا پتھر (۳) ایک قسم کا پھول (رنگ سلیمانی (۴)

ایک قسم کا فرما۔

سیلمانی کوئی۔ (۱۔ مٹ) ایسی فرضی ٹوٹی جس کے پین لینے سے وہ سب کو دیکھ سکتا ہے مگر اسے کوئی نہیں دیکھ سکتا۔

س۔ م۔

سسم۔ (۱۔ مذ) (۱۱) آواز۔ تال۔ سُر (۲) برابر۔ ہم وزن۔ پورا۔

سسم۔ (۱۔ مٹ) (۱) زہر۔ بس (۲) چھید۔ سوراخ۔ اُردو میں لبکون سیم مشتمل ہے۔

سسم الخياط۔ (۱۔ مذ) سوئی کا ناگہ۔

سسم القار۔ (۱۔ مذ) ایک زہر پلا پتھر۔ سکیا۔

سسم قاتل۔ (۱۔ صغ) جلد ہلاک کرنے والا زہر۔ زہر ہلاہل۔

سسم۔ (۱۔ مذ) کھڑے یا کھڑے کا پاؤں۔

سسم لینا۔ (۱۔ محاورہ) کھڑے کا ٹھوکرا کھانا۔

سما۔ (س۔ ما) (۱۔ مذ) آسمان۔ فلک۔ آکاش۔ جمع: سموات۔

سما۔ سما۔ (س۔ ما) (س۔ مال) (۱۔ مذ) (۱) دقت۔ ساعت۔

(۲) موخ۔ محل (۳) رُت۔ موسم۔ فصل (۴) کیفیت۔ حالت۔ عالم۔

(۵) رونق۔ لطف۔ بزم (۶) تماشا۔ سیر۔ نظارہ۔

سما (سما) بانڈھنا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) رنگ بھانا (۲) کیفیت پیدا کرنا۔

لُغف پیدا کرنا۔

سما (سما) بندھنا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) محویت کا عالم طاری ہونا۔

(۲) رنگ بھانا۔

سما پت۔ (س۔ ما۔ پت) (س۔ ۱۔ مذ) کمال۔ پورا ہونا۔

سما پین۔ (ق) مانند۔ مثل۔

سماج۔ (س۔ ما۔ ج) (س۔ ۱۔ مٹ) (۱) معاشرہ۔ سوسائٹی (۲) انجمن۔ کمیٹی۔ محفل۔ گروہ۔ جتھا۔ ٹولی۔ منڈلی۔

سما جاننا۔ (س۔ ما۔ جا۔ نا) (۱۔ مٹ) (۱) بس جانا۔ بیٹھ جانا۔ بھر جانا۔

(۲) جذب ہو جانا۔ سرایت کرنا۔

سما جنت۔ (س۔ ما۔ جنت) (۱۔ مٹ) (۱) شرمندگی (۲) شرمی۔

زشتی۔ عیب دار ہونا (۳) شرمندگی (۴) اُڑاؤ۔ زنت۔ چاپروس۔

خوشامد (اُردو میں) "سنت" کے بے زہر نہیں بولا جاتا۔

سماجی۔ (س۔ ما۔ جی) (اُڑ۔ صغ) سماج یا معاشرے سے

متعلق۔ معاشرتی۔

سماچار۔ (س۔ ما۔ چار) (س۔ ۱۔ مذ) خبر۔ اطلاع (۲) حالت۔ کیفیت۔

سما دھ۔ (س۔ ما۔ دھ) (س۔ ۱۔ مٹ) (۱) گڑھا۔ غار۔ کھو (۲) جوگیوں

سنیاسیوں یا ماجا جاؤں کی پٹریوں کے دفن ہونے کی جگہ (۳) فکسٹر (ق)۔

سما دھ لیگانا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) سانس روکنا۔ جس دم کرنا (۲) جگہ کھینچنا۔

کچھ مدت کے لیے جم کر بیٹھنا۔

سما دھ لینا۔ (۱۔ محاورہ) جوگیوں سنیاسیوں کا میتے جی دفن ہو جانا۔ دم

سادھ کچھ مدت کے لیے زمین میں گڑ جانا۔

سما دھان۔ (س۔ ما۔ دھان) (س۔ ۱۔ مذ) (۱) مذہبی تعصب۔ مذہبی کٹرپن (۲) مراقبہ۔ دھیان (۳) سوال کا جواب۔

سما دھی۔ (س۔ ۱۔ مٹ) (۱) گناہ کرنا (۲) تصور جمانا (۳) اختلاف رنخ کرنا۔

(۴) وعدہ۔ ہمد (۵) بدلہ۔ جزا (۶) گردن کی پڈھی (۷) ناممکن کام

کی کوشش (۸) ثبوت پیش کرنا۔ نیز دیکھیے سما دھ۔

سما روخ۔ (ف۔ ۱۔ مذ) گلوت۔ کھبھی۔

سماخ۔ (س۔ ما۔ خ) (س۔ ۱۔ مذ) (۱) سُٹنا (۲) اُڑاؤ۔ داگ یا گانا سُٹنا۔

(۳) دھس۔ دسرو۔ ناچ گانا۔

سما عمت۔ (س۔ ما۔ عمت) (س۔ ۱۔ مٹ) (۱) سُٹنے کی طاقت (۲)

سنا۔ (مقدّمے کی) پیشی یا کارروائی۔

سما عمت کرنا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) سُٹنا۔ حاکم کا مقدّمے کی کارروائی کرنا۔

(۲) توقیر یا القات کرنا۔

سما عمت کے قابل۔ (۱۔ صغ) (۱) سُٹنے کے لائق (ایسا مقدّمہ) جو

پیش کرنے یا کارروائی کے قابل ہو۔ وہ مقدّمہ جس میں حاکم کو کارروائی

کا اختیار ہو۔

سما عمت میں فرق آتا۔ (۱۔ محاورہ) کم سائی دینا۔

سما عمت یک طرفہ۔ (س۔ ف۔ ۱۔ مٹ) (۱) صرف ایک ذوق کے

عاصر عدالت ہونے پر مقدّمے کی سماعت۔ یک طرفہ فیصلہ۔

سما عی۔ (س۔ ما۔ عی) (س۔ صغ) (۱) سُٹنا۔ ہوا روائتی۔ سینہ بہ سینہ۔ کافون

کان (۲) (صرف دیکھو کی اصطلاح) (۱) لفظ جو کسی قاعدے کے مطابق

نہ بنا ہو۔ اہل زبان اس طرح بولتے ہوں اور اُن سے سُٹا گیا ہو۔

سماق۔ (س۔ ما۔ ق) (س۔ ۱۔ مذ) ایک قسم کا سنگ مرمر۔

سماں۔ (س۔ ما۔ ن) (۱) مانند۔ مثل۔ نظیر۔ ثنائی۔

سما نا۔ (س۔ ما۔ نا) (۱) کھینا۔ پورا ہونا۔ سُٹنا۔ اندر بیٹھنا۔ آجانا (۲) بسنا۔

جنا۔ سُٹنا۔ تیر نظر ہونا (۳) گھٹائش ہو جانا (۴) رچنا بسنا۔ معطر ہونا۔

(۵) چھنا۔ نظر چڑھنا۔ بھانا۔ پسند آنا۔

سماوات۔ (س۔ ما۔ وات) (س۔ ۱۔ مذ) سما کی جمع۔ افلاک۔

سما وار۔ سما ور۔ (س۔ ما۔ وار) (س۔ ما۔ ور) (۱) مذ (۱) پانی گرم کرنے

کا دو ہزار برتن جو تانے یا پینے کا ہوتا ہے جس کے اندر آگ جلتی ہے

اور باہر پانی گرم ہوتا ہے۔

سماوی۔ (س۔ ما۔ وی) (س۔ صغ) (۱) آسمانی (۲) اُڑتی۔

سما نی۔ (س۔ ما۔ ای) (۱۔ مٹ) (۱) گھٹائش۔ دست۔ جگہ (۲) بردباری

برداشت۔ تحمل (۳) حوصلہ۔ ظرف (۴) کھپت۔

سمبست (سمبست)۔ (س۔ سم۔ بست) (س۔ مٹ) (۱) سنہ۔ برس۔

سال (۲) بکری سنہ جو ۵ قبل مسیح میں قائم ہوا تھا۔ یہ سال ہجرت سے

شروع ہو کر پھاگن میں ختم ہوتا ہے۔

سمبیل۔ (س۔ سم۔ بیل) (ق۔ ۱۔ مذ) زہر۔ سکیا۔

سمبیل۔ (Symbol) (س۔ سم۔ بیل) (۱) داگ۔ علامت۔ اشارہ۔ رمز۔

وہ چیز جو کسی سمبست کی بنا پر کسی دوسری چیز کو ظاہر کرتی ہو یا اس کی

طرت ذہن منتقل کرتی ہو۔
 سمبندھ - (رسم - بندھ) (۱-۵-۱۰) (۱) رشتہ - نانتہ - نسبت - تعلق (۲) قبیلہ -
 گنبد (۳) ماہ دوم - میل طاب (۴) گوت - برادری۔
 سمبندھی - (رسم - بن - دھی) (۱-۵-۱۰) (۱) رشتہ دار - متعلقین - اقربا۔
 سمبندھی پتھر - شجرہ نسب - نسب نامہ۔
 سمپان - (Sampan) (رسم - پان) (۱) مٹ - چینی ناؤ -
 چینی دھن کی کشتی۔
 سمپت - (۱-۵-۱۰) (مٹ) بہتری - خوش حالی - ترقی۔
 سمپٹ - (رسم - پٹ) (۱-۵-۱۰) (۱) کمیا گروں کا آگ پر رکھنے کا خاص برتن۔
 جس کا منہ بند ہوتا ہے۔
 سمپورن - (رسم - پورن) (۱-۵-۱۰) (۱) صفت - پورا - کامل - تمام - مکمل۔
 سمندت - (۱-۵-۱۰) (مٹ) (۱) جانب - طرف - رخ - جہت (۲) راہ - روش -
 سمت - المراس - (۱-۵-۱۰) (مٹ) (۱) سر سے آسمان تک کا سدھا خط (۲)
 ادب - بلندی کی انتہا - ترقی کا کمال۔
 سمندت - (۱-۵-۱۰) (مٹ) بکری سال۔
 سمندت - (رسم - مٹ) (۱-۵-۱۰) (مٹ) (۱) شکن (۲) سکڑنا۔
 (۳) اکٹھا کرنے یا جمع کرنے کا فعل - سمٹنا کا امر۔
 سمٹ جاننا - (۱-۵-۱۰) (مٹ) سکڑنا - اکٹھا ہونا - کم ہونا - ختم ہونا۔
 سمٹنا - (۱-۵-۱۰) (مٹ) (۱) اکٹھا ہونا - سکڑنا (۲) رخصت ہونا -
 (۳) یک جا ہونا (۴) سرک جانا۔
 سمٹی - (رسم - ٹی) (۱-۵-۱۰) (مٹ) ایک قسم کا کپڑا۔
 سمٹھ - (رسم - بٹھ) (۱-۵-۱۰) (مٹ) (۱) عقل - فہم - دانش - گمان۔
 سمٹھ آنا - (۱-۵-۱۰) (مٹ) ہوشیار ہونا - عقل آنا - سبانا ہونا - آنکھیں کھلنا۔
 سمٹھ اٹھی ہونا - (۱-۵-۱۰) (مٹ) عقل پھر جانا - دماغ اٹھنا۔
 سمٹھ بوجھ - (۱-۵-۱۰) (مٹ) عقل دانش - فہم و فراست۔
 سمٹھ پر پتھر پڑیں - (۱-۵-۱۰) (مٹ) ایسی عقل چوٹے میں جائے - یہ سبھی
 غارت ہو جائے۔
 سمٹھ دار - (۱-۵-۱۰) (مٹ) عقل مند - سبانا - ہوشیار - دانا - تجربہ کار۔
 سمٹھ کا گھر دوسرے - (۱-۵-۱۰) (مٹ) سمٹھنا بڑی مشکل بات ہے۔
 سمٹھ کے - (۱-۵-۱۰) (مٹ) فعل - سوجھ بچار کے - دیکھ بھال کے۔
 سمٹھ لوگ کا - (۱-۵-۱۰) (مٹ) بدلے کر چھوڑوں گا۔
 سمٹھنا بچھا کر - (۱-۵-۱۰) (مٹ) اچھی طرح سکا بچھا کر جہائش کر کے۔
 سمٹھانا - (رسم - بٹھانا) (۱-۵-۱۰) (مٹ) (۱) ذہن نشین کرنا (۲) بتانا - سمٹھانا (۳)
 نصیحت کرنا (۴) حساب دینا (۵) ٹیک بنانا (۶) اقرار کرانا -
 (۷) تینیدہ کرنا۔
 سمٹھانا بچھانا - (رسم - بٹھانا) (۱-۵-۱۰) (مٹ) (۱) عقل دینا - جہائش کرنا۔
 سمٹھنا - (رسم - بٹھنا) (۱-۵-۱۰) (مٹ) (۱) جاننا - واقف ہونا (۲) سمٹھنا (۳) دل
 میں ٹھاننا (۴) حساب میں لگانا (۵) بدلہ لینا (۶) ذہن نشین ہونا -
 (۷) مارنا پھینکا (۸) خورد گرد کرنا (۹) ماتا (۱۰) عقل میں لانا۔
 سمٹھ لینا - (۱-۵-۱۰) (مٹ) بدلہ لینا (۲) ذہن نشین ہونا (۳) سزا دینا (۴) تسلیم کر

لینا (۵) مستند ہونا (۶) فکر کرنا - سوچنا۔
 سمٹھنے والے کی موت ہے - (۱-۵-۱۰) (مٹ) (۱) دانا کو بڑی مشکوں کا سامنا
 کرنا پڑتا ہے۔
 سمٹھوٹا - (۱-۵-۱۰) (مٹ) معاہدہ - مصالحت - باہمی فیصلہ کر لینا۔
 سمٹھے - (۱-۵-۱۰) (مٹ) ہوش آیا - کچھ پتہ چلا؟ آیا خیال میں؟
 سمٹھن - (رسم - ڈھن) (۱-۵-۱۰) (مٹ) ڈولھا اور ڈہن کی مائیں آپس میں
 سم ڈھن کہلاتی ہیں۔
 سمٹھی - (رسم - ڈھی) (۱-۵-۱۰) (مٹ) ڈولھا اور ڈہن کے باپ آپس میں
 سمٹھی ہوتے ہیں۔
 سمٹھیانا - (رسم - ڈھنا) (۱-۵-۱۰) (مٹ) ڈھن یا دولھا کا گھرانہ -
 سمٹھی کا گھرانہ۔
 سمٹھی - (رسم - بی - تی) (۱-۵-۱۰) (مٹ) (۱) ہندوؤں کی "اہامی" کتابیں۔
 (۲) محافظہ - دھیان - یادداشت۔
 سمٹرن - (رسم - رن) (۱-۵-۱۰) (مٹ) (۱) وظیفہ - ورد - خدا کا نام چینا (۲)
 تینتھ - نالا۔
 سمٹروت - (رسم - روت) (۱-۵-۱۰) (مٹ) (۱) بزرگ - نیک (۲) صابر - لائق۔
 سمٹروت پینا - (۱-۵-۱۰) (مٹ) بزرگی - نیکی۔
 سمٹے - (۱-۵-۱۰) (مٹ) (۱) سٹنے کی قوت - کان - گوش۔
 سمٹ خراشی - (۱-۵-۱۰) (مٹ) کان کھانا - منہ چاٹنا۔
 سمٹھی - (۱-۵-۱۰) (مٹ) (۱) جلد سٹنے اور دیکھنے کے قابل
 بنانے والے امدادی آلات۔
 سمٹک - (رسم - ٹک) (۱-۵-۱۰) (مٹ) (۱) وہ پھلی جس پر عوام کے عقیدے میں
 زمین ٹکی ہوئی ہے۔ کئی تائب سے بھلا طبقہ۔
 سمٹکل - (Smuggle) (۱-۵-۱۰) (مٹ) (۱) ناجائز درآمد برآمد - جنگی یا معمول ادا کیے بغیر مال
 لے جانا۔ دیکھی اسمٹل کرنا۔
 سمٹگل - (Smuggler) (۱-۵-۱۰) (مٹ) دیکھی اسمٹل۔
 سمٹگلنگ (Smuggling) (۱-۵-۱۰) (مٹ) دیکھی اسمٹلنگ۔
 سمٹن - (رسم - ٹن) (۱-۵-۱۰) (مٹ) (۱) چینیلی - یا سمن۔
 سمٹن اندام - (۱-۵-۱۰) (مٹ) (۱) گورا پٹا - سیم تن - معشوق۔
 سمٹن بڑ - (۱-۵-۱۰) (مٹ) (۱) چینیلی سا بدل والا - خوبصورت معشوق۔
 سمٹن - (Summon) (رسم - ٹن) (۱-۵-۱۰) (مٹ) (۱) حاضر عدالت ہونے
 کا تحریری حکم - پر دوائے طلبی (اوردو میں "م" کی تشدید کے
 ساتھ مستعمل ہے)۔
 سمٹن جاری کرنا - (۱-۵-۱۰) (مٹ) (۱) حسب قانون طلب نامہ بھیجنا۔
 سمٹن کی تقییل - (۱-۵-۱۰) (مٹ) (۱) طلبی کا عمل میں لانا - سمن کو بجا لانا۔
 سمٹند - (رسم - ٹند) (۱-۵-۱۰) (مٹ) (۱) گھوڑا - زردی مائل گھوڑا۔
 سمٹندر - (رسم - ٹندر) (۱-۵-۱۰) (مٹ) (۱) ایک جانور جس کی بابت مشہور ہے
 کہ آگ میں پیدا ہوتا اور وہیں رہتا ہے۔ آگ سے باہر نکلتے ہی
 مڑ جاتا ہے۔
 سمٹندر - (رسم - ٹندر) (۱-۵-۱۰) (مٹ) (۱) بجز دریائے اعظم - ساگر۔

سُن (س۔۱۔۱) مذ (۱) ایک پودا جس کی چھال سے ریشاں بنتی ہیں (۲) دھت (۳) کسی چیز کے زور سے گزرنے کی آواز۔

سُن سے جی ہو جانا۔ (۱) محاورہ) دل دھک سے ہو جانا۔ سناہٹ چوٹ جانا۔

سُن سے نکل جانا۔ (۱) محاورہ) زناٹے سے نکل جانا۔ جلدی سے نکل جانا۔

سُن۔ (س۔۱۔۱) مذ (۱) عمر سال۔ مقدار عمر۔ جمع : سنین۔

سُن (بلوٹ) بلوٹ۔ (س۔۱۔۱) مذ (۱) جوانی کی عمر۔ سیانا ہونا۔ (تازانہ) اٹھارہ سال کی عمر۔

سُن تمیز۔ (س۔۱۔۱) مذ (۱) سیان پن کی عمر۔ وہ عمر جس میں نیک و بد کی تمیز ہو جاتی ہے۔

سُن رسیدہ۔ (س۔۱۔۱) مذ (۱) بوڑھا یا بوڑھی۔

سُن شعور۔ (س۔۱۔۱) مذ (۱) جوانی۔ شباب۔

سُن (س۔۱۔۱) مذ (۱) بے حس۔ ساکن۔ بے حرکت (۲) خاموش۔ چپ چاپ۔ (۳) بے ہوش۔ بے خبر۔ سکتے ہیں (۴) مصدر سُننا کا صیغہ امر۔

سُن۔ (کلہ تنبیہ) خبردار کرنے اور دھمکانے کے موقع پر آتا ہے۔

سُن بہری۔ (س۔۱۔۱) مذ (۱) ناچ۔ لغو۔ ریشہ۔

سُن پانا۔ (۱) محاورہ) آگاہ یا واقف ہو جانا۔

سُن رکھنا۔ (۱) محاورہ) خبردار ہونا۔ سنبھلنا۔

سُن سے ڈھول بہوں کے بول۔ (۱) مذ (۱) جس سے وعدے کے پورے نہ کیے جائیں وہ طنز آ رہا ہوتا ہے۔

سُن گن لینا۔ (۱) محاورہ) (۱) بھید لینا (۲) چھپ کر سُننا۔

سُن (ہو جانا) ہونا۔ (۱) بے ہوش ہو جانا۔ بے حس یا بے حرکت ہو جانا (۲) متحیر ہو جانا۔ چپ یا خاموش رہ جانا (۳) سکتے کی حالت میں ہونا (۴) ٹھکھر جانا۔ کوئی عضو رہ جانا (۵) مزے یا لطف کی شدت سے مد ہوش ہو جانا۔

سنا۔ (س۔۱۔۱) مذ (۱) ایک پودا جس کی پتی دست آور ہوتی ہے۔

سناق۔ (س۔۱۔۱) مذ (۱) قدیم۔ پُرانا۔ ہمیشہ کا (۲) پکا۔ مضبوط۔

سناق دھرم۔ قدیم ہندو مذہب جو مورثی کی پوجا کا قائل ہے۔

سناٹا۔ (س۔۱۔۱) مذ (۱) حیرت۔ سکتے کا عالم۔ سنان۔ ہو کا عالم۔ خاموشی (۲) خوف۔ دہشت۔ سہم (۳) خوفناک آواز۔ (۴) باد و باران کا شور۔

سناٹا آنا۔ (۱) محاورہ) ڈر جانا۔ سہم جانا۔ غشی کا عالم طاری ہو جانا۔ بے ہوش ہو جانا۔

سناٹا گزر جانا۔ (۱) محاورہ) گھبر جانا۔ حیرت میں پڑ جانا۔ بے حواس ہو جانا۔ سٹ پٹا جانا۔

سناٹے سے برستا۔ (۱) محاورہ) زور سے برسا۔ شدت سے برسا۔ موسلا دھار پانی پڑنا۔ چھالوں برستا۔

سندھ رہانا۔ (۱) محاورہ) عملی نکتے بیان کرنا۔ عالمانہ باتیں کرنا۔

سندھ بار آنا۔ (۱) محاورہ) مجبور دیاٹھے شوخی سزا دینا۔ جلا وطن کرنا۔ آنکریوں کے زمانے کی ایک سزا۔

سندھ پھل۔ (۱) مذ (۱) ایک قسم کا دریا پھل جو دوا کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔

سندھ جھاگ۔ (۱) مذ (۱) سفید رنگ کا ایک نمونہ مادہ جو دواؤں میں پڑتا ہے۔

سندھ سوکھ۔ (۱) مذ (۱) ایک دوا (صفت) بہت پینے والا۔

سندھ کھار۔ سرفار کا مغز۔ سنکھیا۔ پھرتال۔

سندھ میں وہ کوگر کچھ سے بیڑ۔ (۱) مذ (۱) ایک جگہ نہ کرواں کے سربراہ سے جھگڑا۔

سندھ ری۔ (س۔۱۔۱) مذ (۱) صفت) سندھ سے فسوس۔

سندھ ری کھیرا۔ (اصطلاح علم حیوانات) ایک خاص قسم کا کھیرے جیسا پھل جو سندھ میں پایا جاتا ہے۔

سندھ ری گائے۔ (۱) مذ (۱) اصطلاح علم حیوانات) ایک قسم کا جانور جو گائے سے مشابہ ہوتا ہے اور سندھ میں پایا جاتا ہے۔

سندھ ری کھوڑا۔ (۱) مذ (۱) اصطلاح علم حیوانات) سندھ میں پایا جانے والا ایال دار چوپایہ جو کھوڑے سے ملتا ہے۔

سنگ۔ (س۔۱۔۱) مذ (۱) گہیوں کا مغز جسے اُبال کر نکالا جاتا ہے۔

سنگوچا۔ (س۔۱۔۱) مذ (۱) پورا۔ سالم۔ سارا۔ تمام۔ کابل۔

سنگور۔ (س۔۱۔۱) مذ (۱) ایک ہنایت باریک لیم والا برفانی جانور (۲) اس جانور کی کھال۔

سنگور۔ (س۔۱۔۱) مذ (۱) مسک۔ گہیوں کا مغز جسے اُبال کر نکالا جاتا ہے۔

سوسا۔ (س۔۱۔۱) مذ (۱) وہ ٹکوتا پکوان جس کے اندر قیر، ترکاری یا کوئی میٹھی چیز بھر کر پکاتے ہیں۔

سوسا۔ (س۔۱۔۱) مذ (۱) مسک۔ گہیوں کا مغز جسے اُبال کر نکالا جاتا ہے۔

سوسا۔ (س۔۱۔۱) مذ (۱) مسک۔ گہیوں کا مغز جسے اُبال کر نکالا جاتا ہے۔

سوسا۔ (س۔۱۔۱) مذ (۱) مسک۔ گہیوں کا مغز جسے اُبال کر نکالا جاتا ہے۔

سوسا۔ (س۔۱۔۱) مذ (۱) مسک۔ گہیوں کا مغز جسے اُبال کر نکالا جاتا ہے۔

سوسا۔ (س۔۱۔۱) مذ (۱) مسک۔ گہیوں کا مغز جسے اُبال کر نکالا جاتا ہے۔

سوسا۔ (س۔۱۔۱) مذ (۱) مسک۔ گہیوں کا مغز جسے اُبال کر نکالا جاتا ہے۔

سوسا۔ (س۔۱۔۱) مذ (۱) مسک۔ گہیوں کا مغز جسے اُبال کر نکالا جاتا ہے۔

سٹائے کا لینہ۔ (ہ۔ ا۔ مذ) نذر شور کی بارش۔

سٹائے میں آنا۔ (ا۔ محاورہ) ڈر جانا۔ حیرت میں ہونا۔ سہم جانا۔
سٹار۔ (س۔ ناز) (ہ۔ ا۔ مذ) زیور بنانے والا۔ زرگر۔

سٹار کی کٹھالی اور درزی کے بند۔ (ا۔ مثل) سٹار کہتا ہے زیور
کٹھالی میں ڈالنا ہے۔ درزی کہتا ہے کپڑے میں بند لگانا ہے۔ دونوں
ان پہانوں سے گاہک کو مٹاتے رہتے ہیں۔

سٹال۔ (س۔ نال) (ع۔ ا۔ مٹ) (ا) نیزے کی اٹی (ب) تیر کی نوک۔
(ب) بجلا۔ نیزہ۔ برہمی۔

سٹانا۔ (س۔ نا۔ نا) (ہ۔ مص) (ا) بے فکر ہو کر سونا (ب) سائیس سائیس
کی آواز دینا۔

سٹان ان سٹا کر دینا۔ (ا۔ محاورہ) سٹ کر مال دینا۔ پردانہ کرنا۔ اس طرح
طاہر کرنا کچھ سنا ہی نہیں۔

سٹا جا پینا۔ (ا۔ محاورہ) گالیاں کھانے کو جی چاہنا۔

سٹا سٹا یا۔ (ا۔ بول چال) (دوسروں سے سٹا ہوا۔ سماجی۔

سٹانا۔ (س۔ نا۔ نا) (ہ۔ مص) (ا) کہنا۔ کان میں ڈالنا (ب) بڑا بھلا کہنا۔
طنن مارنا۔ گالیاں دینا (د) کسی کے سامنے پڑھنا یا گیت وغیرہ

گانا (ب) آگاہ یا خبردار کرنا (د) کسی کے سامنے قرآن شریف کی
تلاوت کرنا یا تراویح میں پڑھنا۔

سٹانی۔ سٹاؤنی۔ (س۔ نا۔ نی) (س۔ نا۔ ا۔ نی) (ہ۔ ا۔ مٹ) (ب) خبر مرگ۔
مرگ کی خبر جو پردیس سے آئے۔

سٹانی۔ سٹوانی۔ (س۔ نا۔ ای) (س۔ دا۔ ای) (ہ۔ ا۔ مٹ) (ا)
و فریادری۔ سماعت (ب) پیچ۔ دخل۔ بازیابی۔

سٹیل۔ (س۔ ٹیل) (ع۔ ف۔ ا۔ مذ) ایک قسم کی خوشبودار گھاس۔
بال چھڑ۔ بٹاماسی۔

سٹیل الطیب۔ (ع۔ ا۔ مذ) بال چھڑ۔

سٹیلستان۔ (ن۔ ا۔ مذ) جہاں کثرت سے سٹیل اُگے ہوئے ہوں (ب) زمینیں بال
سٹیل۔ (س۔ ٹ۔ لہ) (ع۔ ا۔ مذ) راؤ توشہ۔ گندم یا جو کی بال (ب) آسمان

کے چھٹے بڑج کینا اس کا نام۔ جمع : سٹایل۔
سٹیموسہ۔ (س۔ بو۔ سہ) (ن۔ ا۔ مٹ) سموسہ۔ ایک ٹھونکا پھول جس میں

تیمر وغیرہ بھرتے ہیں۔
سٹیلہ۔ (س۔ بی) (ن۔ ا۔ مذ) (ا) سوراخ کرنے کا اوزار۔ برما (ب)
توپ کا گز۔

سٹیللا۔ (س۔ بھال) (ہ۔ ا۔ مذ) وہ اناقہ جو مریض کو موت سے پیشتر
جو کرتا ہے۔

سٹیلالینا۔ موت سے پہلے مریض کا تندہرست معلوم ہونے لگنا۔
سٹیلنا۔ (س۔ بھال) (نا۔ ہ۔ مص) (ا) تھمنا۔ روکنا (ب) مدد کرنا (ب)
گڑی بنانا (ب) تیمار داری کرنا (د) گرنے نہ دینا۔ اوپر ہی روک لینا

(د) انتظام ڈھتھ میں لینا۔ جارح لینا (د) پڑتال کرنا (د) قابو میں
رکھنا۔ احتیاط برتنا (د) سٹیلنا۔ اٹھانا (ب) مرض کی روک تھام کرنا۔
(ا) دار کرنے کے لیے ڈھتھ اٹھانا۔

سٹیلنا۔ (س۔ بھال) (نا۔ ہ۔ مص) (ا) تھمنا۔ روکنا (ب) مدد کرنا (ب)
گڑی بنانا (ب) تیمار داری کرنا (د) گرنے نہ دینا۔ اوپر ہی روک لینا

سٹیلنا۔ (س۔ بھال) (نا۔ ہ۔ مص) (ا) تھمنا۔ روکنا (ب) مدد کرنا (ب)
گڑی بنانا (ب) تیمار داری کرنا (د) گرنے نہ دینا۔ اوپر ہی روک لینا

سٹیلنا۔ (س۔ بھال) (نا۔ ہ۔ مص) (ا) تھمنا۔ روکنا (ب) مدد کرنا (ب)
گڑی بنانا (ب) تیمار داری کرنا (د) گرنے نہ دینا۔ اوپر ہی روک لینا

سٹیلنا۔ (س۔ بھال) (نا۔ ہ۔ مص) (ا) تھمنا۔ روکنا (ب) مدد کرنا (ب)
گڑی بنانا (ب) تیمار داری کرنا (د) گرنے نہ دینا۔ اوپر ہی روک لینا

سٹیلنا۔ (س۔ بھال) (نا۔ ہ۔ مص) (ا) تھمنا۔ روکنا (ب) مدد کرنا (ب)
گڑی بنانا (ب) تیمار داری کرنا (د) گرنے نہ دینا۔ اوپر ہی روک لینا

سٹیلنا۔ (س۔ بھال) (نا۔ ہ۔ مص) (ا) تھمنا۔ روکنا (ب) مدد کرنا (ب)
گڑی بنانا (ب) تیمار داری کرنا (د) گرنے نہ دینا۔ اوپر ہی روک لینا

سٹیلنا۔ (س۔ بھال) (نا۔ ہ۔ مص) (ا) تھمنا۔ روکنا (ب) مدد کرنا (ب)
گڑی بنانا (ب) تیمار داری کرنا (د) گرنے نہ دینا۔ اوپر ہی روک لینا

سٹیلنا۔ (س۔ بھال) (نا۔ ہ۔ مص) (ا) تھمنا۔ روکنا (ب) مدد کرنا (ب)
گڑی بنانا (ب) تیمار داری کرنا (د) گرنے نہ دینا۔ اوپر ہی روک لینا

سٹیلنا۔ (س۔ بھال) (نا۔ ہ۔ مص) (ا) تھمنا۔ روکنا (ب) مدد کرنا (ب)
گڑی بنانا (ب) تیمار داری کرنا (د) گرنے نہ دینا۔ اوپر ہی روک لینا

سٹیلنا۔ (س۔ بھال) (نا۔ ہ۔ مص) (ا) تھمنا۔ روکنا (ب) مدد کرنا (ب)
گڑی بنانا (ب) تیمار داری کرنا (د) گرنے نہ دینا۔ اوپر ہی روک لینا

سٹیلنا۔ (س۔ بھال) (نا۔ ہ۔ مص) (ا) تھمنا۔ روکنا (ب) مدد کرنا (ب)
گڑی بنانا (ب) تیمار داری کرنا (د) گرنے نہ دینا۔ اوپر ہی روک لینا

سٹیلنا۔ (س۔ بھال) (نا۔ ہ۔ مص) (ا) تھمنا۔ روکنا (ب) مدد کرنا (ب)
گڑی بنانا (ب) تیمار داری کرنا (د) گرنے نہ دینا۔ اوپر ہی روک لینا

سٹیلنا۔ (س۔ بھال) (نا۔ ہ۔ مص) (ا) تھمنا۔ روکنا (ب) مدد کرنا (ب)
گڑی بنانا (ب) تیمار داری کرنا (د) گرنے نہ دینا۔ اوپر ہی روک لینا

سٹیلنا۔ (س۔ بھال) (نا۔ ہ۔ مص) (ا) تھمنا۔ روکنا (ب) مدد کرنا (ب)
گڑی بنانا (ب) تیمار داری کرنا (د) گرنے نہ دینا۔ اوپر ہی روک لینا

سٹیلنا۔ (س۔ بھال) (نا۔ ہ۔ مص) (ا) تھمنا۔ روکنا (ب) مدد کرنا (ب)
گڑی بنانا (ب) تیمار داری کرنا (د) گرنے نہ دینا۔ اوپر ہی روک لینا

سٹیلنا۔ (س۔ بھال) (نا۔ ہ۔ مص) (ا) تھمنا۔ روکنا (ب) مدد کرنا (ب)
گڑی بنانا (ب) تیمار داری کرنا (د) گرنے نہ دینا۔ اوپر ہی روک لینا

سٹیلنا۔ (س۔ بھال) (نا۔ ہ۔ مص) (ا) تھمنا۔ روکنا (ب) مدد کرنا (ب)
گڑی بنانا (ب) تیمار داری کرنا (د) گرنے نہ دینا۔ اوپر ہی روک لینا

سٹیلنا۔ (س۔ بھال) (نا۔ ہ۔ مص) (ا) تھمنا۔ روکنا (ب) مدد کرنا (ب)
گڑی بنانا (ب) تیمار داری کرنا (د) گرنے نہ دینا۔ اوپر ہی روک لینا

سٹیلنا۔ (س۔ بھال) (نا۔ ہ۔ مص) (ا) تھمنا۔ روکنا (ب) مدد کرنا (ب)
گڑی بنانا (ب) تیمار داری کرنا (د) گرنے نہ دینا۔ اوپر ہی روک لینا

سٹیلنا۔ (س۔ بھال) (نا۔ ہ۔ مص) (ا) تھمنا۔ روکنا (ب) مدد کرنا (ب)
گڑی بنانا (ب) تیمار داری کرنا (د) گرنے نہ دینا۔ اوپر ہی روک لینا

سٹیلنا۔ (س۔ بھال) (نا۔ ہ۔ مص) (ا) تھمنا۔ روکنا (ب) مدد کرنا (ب)
گڑی بنانا (ب) تیمار داری کرنا (د) گرنے نہ دینا۔ اوپر ہی روک لینا

قناعت - اصطلاحات - تسلی۔

سنتوشی (سنتوشی) - وہ صفا برہمن۔ قانع۔

سنٹر - (Centre) (سن - سن) (ڈانگ - ۱) (ڈانگ - ۱) (ڈانگ - ۱)۔

سنٹرل - (Central) (سن - سن) (ڈانگ - ۱) (ڈانگ - ۱) (ڈانگ - ۱)۔

سنٹی - (سن - ٹی) (ڈانگ - ۱) (ڈانگ - ۱) (ڈانگ - ۱)۔

سینج - (ت - لاحقہ) سینجین مصدر کا صیغہ امر - ام کے بعد اگر فاعل ترکیبی بنا دیتا ہے جیسے سخن سینج - نواسنج - وزن کرنے والا۔

سینجاب - (سن - جاب) (ڈانگ - ۱) (ڈانگ - ۱) (ڈانگ - ۱)۔

کی ملائم پشم واکھال کی پرستین بناتے ہیں۔

سنجھارا - (سن - مت) (ڈانگ - ۱) (ڈانگ - ۱) (ڈانگ - ۱)۔

سینجاف - (سن - جاب) (ڈانگ - ۱) (ڈانگ - ۱) (ڈانگ - ۱)۔

آڑی گوٹ - حاشیہ - گوٹ جو کپڑوں کے کنارے زرباش کے لیے لگاتے ہیں۔ اُردو میں لیغ آڈل مستقل ہے۔

سنجھانا - (سن - جھانا) (ڈانگ - ۱) (ڈانگ - ۱) (ڈانگ - ۱)۔

سنجھول - (سنجھول) (ڈانگ - ۱) (ڈانگ - ۱) (ڈانگ - ۱)۔

سنجھولی - (سن - جھولی) (ڈانگ - ۱) (ڈانگ - ۱) (ڈانگ - ۱)۔

سنجھیدہ - (سن - جھیدہ) (ڈانگ - ۱) (ڈانگ - ۱) (ڈانگ - ۱)۔

سنجھانا - (سن - جھانا) (ڈانگ - ۱) (ڈانگ - ۱) (ڈانگ - ۱)۔

سنجھوٹی - (سنجھوٹی) (ڈانگ - ۱) (ڈانگ - ۱) (ڈانگ - ۱)۔

سنجھوٹی - (سنجھوٹی) (ڈانگ - ۱) (ڈانگ - ۱) (ڈانگ - ۱)۔

سنجھوٹی - (سنجھوٹی) (ڈانگ - ۱) (ڈانگ - ۱) (ڈانگ - ۱)۔

سنجھوٹی - (سنجھوٹی) (ڈانگ - ۱) (ڈانگ - ۱) (ڈانگ - ۱)۔

سنجھوٹی - (سنجھوٹی) (ڈانگ - ۱) (ڈانگ - ۱) (ڈانگ - ۱)۔

سنجھوٹی - (سنجھوٹی) (ڈانگ - ۱) (ڈانگ - ۱) (ڈانگ - ۱)۔

سنجھوٹی - (سنجھوٹی) (ڈانگ - ۱) (ڈانگ - ۱) (ڈانگ - ۱)۔

سنجھوٹی - (سنجھوٹی) (ڈانگ - ۱) (ڈانگ - ۱) (ڈانگ - ۱)۔

سندلیاقت (فضیلت) - (سن - ۱) (سن - ۱) (سن - ۱)۔

سندلیاقت نامہ - سرٹیکٹ۔

سند مانگنا - (سن - مانگنا) (ڈانگ - ۱) (ڈانگ - ۱) (ڈانگ - ۱)۔

سند ہونا - (سن - ہونا) (ڈانگ - ۱) (ڈانگ - ۱) (ڈانگ - ۱)۔

سند ہے - درست ہے۔ قابل تسلیم ہے۔ مثال میں پیش کرنے کے لائق ہے۔

سند یا قنہ - (سن - قنہ) (ڈانگ - ۱) (ڈانگ - ۱) (ڈانگ - ۱)۔

سند - (سن - ن - دن) (ڈانگ - ۱) (ڈانگ - ۱) (ڈانگ - ۱)۔

سند - (سن - ن - دن) (ڈانگ - ۱) (ڈانگ - ۱) (ڈانگ - ۱)۔

سند - (سن - ن - دن) (ڈانگ - ۱) (ڈانگ - ۱) (ڈانگ - ۱)۔

سند - (سن - ن - دن) (ڈانگ - ۱) (ڈانگ - ۱) (ڈانگ - ۱)۔

سند - (سن - ن - دن) (ڈانگ - ۱) (ڈانگ - ۱) (ڈانگ - ۱)۔

سند - (سن - ن - دن) (ڈانگ - ۱) (ڈانگ - ۱) (ڈانگ - ۱)۔

سند - (سن - ن - دن) (ڈانگ - ۱) (ڈانگ - ۱) (ڈانگ - ۱)۔

سند - (سن - ن - دن) (ڈانگ - ۱) (ڈانگ - ۱) (ڈانگ - ۱)۔

سند - (سن - ن - دن) (ڈانگ - ۱) (ڈانگ - ۱) (ڈانگ - ۱)۔

سند - (سن - ن - دن) (ڈانگ - ۱) (ڈانگ - ۱) (ڈانگ - ۱)۔

سند - (سن - ن - دن) (ڈانگ - ۱) (ڈانگ - ۱) (ڈانگ - ۱)۔

سند - (سن - ن - دن) (ڈانگ - ۱) (ڈانگ - ۱) (ڈانگ - ۱)۔

سند - (سن - ن - دن) (ڈانگ - ۱) (ڈانگ - ۱) (ڈانگ - ۱)۔

سند - (سن - ن - دن) (ڈانگ - ۱) (ڈانگ - ۱) (ڈانگ - ۱)۔

سند - (سن - ن - دن) (ڈانگ - ۱) (ڈانگ - ۱) (ڈانگ - ۱)۔

سند - (سن - ن - دن) (ڈانگ - ۱) (ڈانگ - ۱) (ڈانگ - ۱)۔

سند - (سن - ن - دن) (ڈانگ - ۱) (ڈانگ - ۱) (ڈانگ - ۱)۔

کوئی کاروبار کرے (۲) سینٹ کی اسپیشل کمیٹی (کمیشن)۔

سنسار - (سن - سار) (۱) مذ - دنیا - جہان - کائنات۔

سٹان - (سن - سان) (۱) صفت (۱) ویران - اٹھاڑ - بے رونق (۲) خاموش - خالی - اداس (۳) ڈراؤنا - بھیانک۔

سنسور - (Censor) (سن - سسر) (انگ - ۱) مذ - احتساب - محاسب کسی بات سے روکنے والا۔

سنسکرت - (سنس - ک - رت) (س - ۱) صفت (۱) مقدس - شستہ - ہندو - ہندو - ہندو - ہندو (۲) مکمل اور پوری زبان - آریہ لوگوں کی اصلی زبان۔

سنسنانا - (سن - سن - نا - نا) (۱) صفت (۱) سن سن کرنا - سرسرانا (۲) غشی معلوم ہونا - ضعف محسوس ہونا (۳) کپٹنا - پھڑکانا (۴) کسی چیز کے زور سے گرنے کی آواز (۵) خوفزدہ ہوجانا - ستائے میں آجانا۔

سنسناہٹ - سنسنی - (سن - سن - نا - ہٹ) (سن - سن - نی) (۱) - ۱ - صفت (۱) صفت کے آثار یا علامت - غشی کا عالم - کئے کی حالت - (۲) وہ آواز جو مٹی کے کورسے برتن میں پانی ڈالنے یا پانی گھولنے سے پیدا ہو۔

سنسی - (سن - سی) (۱) صفت (۱) لوہاروں اور ستاروں کا ایک اوزار جس سے گرم دھات آگ میں سے نکالتے اور چوٹ لگاتے ہیں - ایک قسم کا زینور۔

سنک - (سن - نگ) (۱) صفت (۱) جھٹ - جنون - سودا (۲) ہوا کا ہلکے ہلکے چلنا۔

سنک - (سن - نگ) (۱) صفت (۱) ناک کی غلاقت - رینٹ - سنکارنا - (سن - کار - نا) (۱) صفت (۱) آٹھ سے اشارا کرنا - آٹھ ماونا - (۲) اگلا - پیچھے لگانا۔

سنکرانت - (سنک - رانت) (۱) صفت (۱) تحویل آفتاب کا دن - سورج کا ایک بڑج سے دوسرے بڑج میں جانے کا دن (۲) ہندوؤں کا ایک تہوار۔

سنکل - (سن - کل) (۱) صفت (۱) زنجیر - گندی - زین - سنگل - سنکلب - (سنک - لب) (س - ۱) مذ - خیر خیرات - نذر نیباز - دان ہیں - وقف۔

سنکلب کرنا - (۱) صفت (۱) خیرات کرنا - دان دینا (۲) ہبہ کرنا - کسی نئے نام رکھ دینا۔

سنکلی - (سن - ک - لی) (۱) صفت (۱) چھوٹی زنجیر - سنکنا - (سن - نگ - نا) (۱) صفت (۱) ناک صاف کرنا۔

سن کونا - (Cinchona) (سن - کو - نا) (انگ - ۱) صفت (۱) ویسی کریم (۲) وہ درخت جس کی پھال سے کوئین نکالی جاتی ہے۔

سنکھ - (۱) صفت (۱) ناکوس - گھونٹا - بڑی کوڑی جو مندروں میں بجاتی جاتی ہے (۲) سوکروڑ (۳) زیور - گنا۔

سنکشی - (سنک - شی) صفت (۱) چار قسموں میں سے ایک قسم - وہ عورت جس کے بال بے قد دراز - مزاج پروردگار اور خواہش نفسانی

بڑھی ہوئی ہو۔

سنکھیا - (سنکھ - یا) (۱) صفت (۱) ایک قسم کا زہر - سم الغار - ہر وہ چیز جو زہر قاتل ہو۔

سنگ - (ن - ۱) مذ (۱) پتھر (۲) وزن - بوجھ - گرانی (۳) تلکین - دتار۔

سنگ آستان - آستانہ - (ن - ۱) مذ (۱) دلیز کا پتھر - سنگ در -

سنگ آند و سخت آند - (ن - ۱) صفت (۱) پتھر آیا اور وہ بھی بھاری - شکل اور سخت شکل کا سامنا کرنا پڑا - اس وقت کہتے ہیں - جب کوئی کام چارونا چار کرنا ہی پڑے۔

سنگ آہن رُبا - (ن - ۱) صفت (۱) مقناطیس - لوہے کو اپنی طرف کھینچنے والا پتھر۔

سنگ اسود - (ن - ۱) صفت (۱) سیاہ پتھر جو کبھ شریف کی دیوار میں نصب ہے اور جیسے سلمان بوسدیتے ہیں - حجر اسود۔

سنگ باری - (ن - ۱) صفت (۱) پتھر برسانا - پتھر مارنا - پتھر کی بو بھاڑ۔

سنگ بھری - (ن - ۱) صفت (۱) ایک قسم کا سفید پتھر جو بھرہ کے علاقے میں پیدا ہوتا ہے۔

سنگ پا - (ن - ۱) صفت (۱) پاؤں لگانے کا پتھر - جھانواں۔

سنگ پارس - (ن - ۱) صفت (۱) ایک پتھر جس کی بابت مشہور ہے کہ لوہے کو چھو کر سونا بنا دیتا ہے۔

سنگ پشت - (ن - ۱) صفت (۱) کھوا۔

سنگ تراش - (ن - ۱) صفت (۱) پتھر کاٹنے اور پتھر کا کام بنانے والا۔

سنگ تربت - (ن - ۱) صفت (۱) قبر پر لگا ہوا پتھر - لوح مزار - وہ پتھر جس پر مردے کا نام اور تاریخ وفات کندہ کر کے قبر پر لگاتے ہیں۔

سنگ جراحی - (ن - ۱) صفت (۱) ایک قسم کا سفید پتھر جو زخم کے لیے مفید ہے۔

سنگ چٹانا - (۱) صفت (۱) پتھر بردار کر تیز کرنا۔

سنگ چٹنا - (۱) صفت (۱) ساتھ چلنا - رفاقت کرنا۔

سنگ چھوڑنا - (۱) صفت (۱) دوستی ترک کرنا - الگ ہونا۔

سنگ خارا - (ن - ۱) صفت (۱) ایک قسم کا نیلگوں صفت پتھر۔

سنگ دانہ - (ن - ۱) صفت (۱) پرندے کا معدہ - پوٹا۔

سنگ دل - (ن - ۱) صفت (۱) بے رحم - ظالم۔

سنگ راہ - (ن - ۱) صفت (۱) راستے کا پتھر - بورا گیردوں کے لیے باعث تکلیف جو (۲) حزام - مانج۔

سنگ ریزہ - (ن - ۱) صفت (۱) لنگر - روڑی - بھری۔

سنگ سار کرنا - (۱) صفت (۱) پتھر مار مار کر ہلاک کر ڈالنا (۲) شراب اسلامی کی ایک سزا جس میں زانی اور اعلائی کو کریمک زمین میں گاڑ کر اور پتھر مار مار کر ہلاک کیا جاتا ہے۔

سنگ ساز - چھاپے خانے کا وہ ملازم جو چھاپے کے پتھر یا پمپٹ پر غلطیاں درست کرتا ہے۔

سنگ ستارا - (ن - ۱) صفت (۱) ایک قسم کا پتھر جس کے ذرات ستاروں کی طرح پھلتے ہیں۔

سنگ سمر - (ن-۱- مذ) وہ پتھر جس کا سمر بناتے ہیں۔
سنگ سلیکائی - (ن-۱- مذ) وہ سنگ جو سیاہ و سفید اور دھاری دار ہوتا ہے۔
سنگ (شجر) شجری - (ن-۱- مذ) ایک قسم کا پتھر جس میں درخت کا کس ہوتا ہے۔ یہ زیادہ تر دریاؤں کے کناروں سے نکالا جاتا ہے (۲) مرغان۔
سنگ فسال - (ن-۱- مذ) وہ پتھر جس پر تھوڑا چاقو کی دھار رکھتے ہیں بیان۔
سنگ گلاخ - (ن-۱- مذ) پتھر کی زمین یا پہاڑی علاقہ۔ کنا پتا شکل دشوار۔
سنگ لوزال - (ن-۱- مذ) وہ پتھر جس پر پڑھنے یا ڈھار حرکت دینے سے بٹنے لگتا ہے۔
سنگ لوح و مزار - (ن-۱- مذ) وہ پتھر جو قبر کے سمر بنانے کے حالات اور تاریخ وفات وغیرہ کندا کر کے نصب کیا جاتا ہے۔
سنگ تربت۔
سنگ مالی - (ن-۱- مذ) پتھر کو پالش کرنے کا عمل۔
سنگ ماہی - (ن-۱- مذ) وہ پتھر جو بعض پھیلوں کے سر سے نکلتا اور سنگ گردہ و درد گردہ کے لیے میند ہے۔
سنگ مشانہ - (ن-۱- مذ) پتھر جو شانے میں پڑھاتی ہے۔
سنگ سمر - (ن-۱- مذ) ایک قسم کا نفیس سفید پتھر۔
سنگ مزار - (ن-۱- مذ) لوح مزار۔ سنگ تربت۔
سنگ موسیٰ - (ن-۱- مذ) ایک قسم کا سیاہ خوبصورت پتھر۔
سنگ میل - (ن-۱- مذ) وہ پتھر جو راستہ کا نشان یا راستہ بتانے کے لیے لگاتے ہیں۔ نشان ماہ۔
سنگ یشب - (ن-۱- مذ) ایک قسم کا سبزی مائل قیمتی پتھر ہے جسے اکثر مجلس کربول دل کے لیے پیتے ہیں یا نجی بنا کر گھر میں ڈالتے ہیں۔
سنگ - (ن-۱- مذ) (۱) ساتھ۔ (۲) رفاقت۔ صحبت۔
سنگا تین - (سن-گا-تن) (۱) حق۔ (۲) سبب۔
سنگاتی سنگاتی - (سن-گا-تی) (سن-گا-تی) (۱) صحیح۔ (۲) ہم راہی۔ رفیق۔
سنگار سنگار - (سن-گار) (سن-گار) (۱) آرائش جو زور لباس اور کنگھی ہوتی ہے کے بجائے۔ زیب و زینت۔ کنگھی ہوتی۔
سنگ پٹی (۲) لباس۔ زور۔
سنگار دان - (ن-۱- مذ) سنگار کی چیزیں رکھنے کا صندوق یا پٹاری۔
سنگار میز - (۱) میز جس پر آرائش کا سامان پڑا رہے۔
سنگارنا - (ن) سوزانا۔ آراستہ کرنا۔
سنگت - (سن-گت) (۱) دوست۔ (۲) رفاقت۔ ساتھ۔ ہمراہ۔ صحبت ہونا۔
ہم نشین (۲) شرکت۔ سا بجا (۳) ہم صحبت۔ ہم نشین (۴) رنڈی کے ساتھ کے لوگ۔ سازندے (۵) مرثیہ خواں اور گوئیے کے ساتھ آواز ملانے والے۔
سنگترہ - (سنگ-ت-رہ) (۱) ڈر۔ (۲) رنگ ترہ۔ سنترہ۔
سنگتی - (سن-گت) (تی) (۱) صحیح۔ (۲) رفیق۔ ہم راہی۔
سنگر - (سن-گر) (ن-۱- مذ) (۱) فرج یا کسی قطعہ اراضی کی حفاظت کے لیے بنائی ہوئی دیوار یا کانٹوں کی باڈھ (مراد) کھاٹی۔ خندق۔

سنگر - (سنگ-لام) (سن-۱- مذ) جنگ و جدال۔
سنگرنا - (سن-گر-نا) (۱) مصلحت۔ (۲) سوزانا۔ سنگار کرنا۔ آراستہ ہونا۔
سنگ رینی - (سنگ-رے-نی) (۱) مٹا۔ (۲) ایک مرض۔ بدہضمی کی وجہ سے بار بار دست آنا۔
سنگل - (۱) ڈاڑھ۔ (۲) انگریزی لفظ (Signal) سنگل کا بگڑا ہوا (۱) اشارہ (۲) ریلوے کا وہ کھجا بولوں کا آنا جانا بتاتا ہے۔
سنگل - (Single) (واگ-صفت) ایک واحد (۲) تہنا۔ ایکلا (۳) اکہرا۔ جو ایک ہی شخص کے لیے بنا یا گیا ہو (۴) کرکٹ میں ایک سن کی ہٹ (۵) چھتیس پتوں کے تربت کا ایک کھیل۔ جس میں جیتنے والوں کو کھربا یا کھڈ اور ہارنے والوں کو چارہیں۔
سنگل گیم - (Single Gam) وہ کھیل جس میں دونوں طرف ایک ایک کھلاڑی ہو۔
سنگم - (سن-گم) (۱) دو دریاؤں کے ملنے کا مقام (۲) ملاقات (۳) اکٹھا ہونا۔
سنگوانا - (سنگ-وانا) (۱) جمع کرنا۔ اکٹھا کرنا (۲) ہتھیانا۔ ٹوٹنا۔
سنگوٹا - (سن-گو-ٹی) (۱) مٹا۔ (۲) وہ غلات یا بیج وغیرہ کا خول جو بیجوں کے سینگوں پر سجاد کے لیے چڑھا دیتے ہیں (۲) گانے یا ہرن کا چوٹا سائینگ۔
سنگوتینا - (سن-گو-تینا) (۱) حق۔ (۲) سیکڑ لینا۔
سنگوتری - (سن-گو-تری) (۱) مٹا۔ (۲) سینگ پر پڑھانے کی شام۔
سنگھ - (۱) شیر (۲) شیر (۳) رکتوں اور پھرتوں کے نام کا عام ہزد (۴) بڑے امد (۵) نہیں۔ ناڈی۔
سنگھاڑا - (سن-گھا-ڑا) (۱) ایک ٹکونا پھل جس کے دو طرف کانٹے لگے ہوتے ہیں اور تالابوں میں ہوتا ہے (۲) سوسے کی طرح پٹھا جو اور مال (۳) دلالوں کی اصطلاح (۴) تین روپے (۵) شفت۔ ٹکونا۔
سنگھاڑا پھلی - (۱) مٹا۔ (۲) ایک قسم کی پھلی۔
سنگھاسن - (سن-گھا-سن) (۱) مٹا۔ (۲) شہ ہی تحت۔
سنگھانا - (۱) مٹا۔ (۲) مٹا۔ (۳) مٹا۔ (۴) مٹا۔ (۵) مٹا۔
سنگلی - (سن-گی) (۱) صحیح۔ (۲) رفیق۔ ہم راہی (۳) ایک قسم کا کیشی کپڑا جس میں سوت ملا ہوتا ہے۔
سنگیت - (سن-گیٹ) (۱) مٹا۔ (۲) مٹا۔ (۳) مٹا۔ (۴) مٹا۔ (۵) مٹا۔

لاکڑی (۲) ایسا ماش جس میں ناچ گا نا ہو (۳) ساز اور رقص کے ساتھ گانے کا فن۔
 سنگین - (سن۔ بگین) (ف۔ صف) (۱) پتھر کا (۲) سخت بھاری۔ دزنی۔ گراں (۳) مضبوط۔ دیر پا (۴) ڈار۔ (۱-۲) مست (۳) ایک نوکدار ہتھیار جو بندوق پر پڑھایا جاتا ہے۔
 سنگین جرم - (ف۔ ع۔ ۱-۱) مذ (بھاری قہور۔ ایسا جرم جو سخت سزا کے قابل ہو۔
 سنگین پڑھانا - (۱-۲) محاورہ) بندوق پر سنگین لگانا یا نصب کرنا۔
 سنگین سزا - (ف۔ ۱-۱) مست (بھاری سزا۔ سخت سزا۔
 سنگینی - (سن۔ گی۔ نی) (ف۔ ۱-۱) مست (سختی۔ سختی۔ سنگینی۔ گراں۔ ٹھوس پن۔
 سن لکھ - (سن۔ لکھ۔ ۱-۱) مست (ق۔ ۱-۱) سائے۔ ڈوبو۔
 سنن - (سن۔ سن) (ع۔ ۱-۱) مذ (۱) سنت کی جمع۔ طریقے (۲) وہ کام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے کیے۔
 سننا - (سن۔ نا) (۱-۱) مست (۱) بھرنانا۔ آلودہ ہونا۔
 سننا - (سن۔ نا) (۱-۱) مست (۱) کانوں سے آواز معلوم کرنا۔ کان لگانا (۲) توجہ کرنا۔ دھیان دینا (۳) گالی کھانا (۴) مقدمے کی سماعت کرنا (۵) گانا سننا (۶) ماننا۔
 سننے میں آنا - (۱-۱) محاورہ) گوش گزار ہونا۔ کان میں بات پڑنا۔
 سنوار - (۱-۱) مست (۱) درست۔ سجاوٹ۔ اصلاح (۲) پٹکار۔ لعنت۔ (تجھے خدا کی سنوار آ۔)

سنی سانی بات - (۱-۱) مست) سنی ہوئی بات۔ افزاء۔ ہوائی بات۔
 سننے (سنو) توہمی - (۱-۱) محاورہ) بھڑو تو۔ بات تو کرو (۲) بات مانو۔
 سنسیاس - (سن۔ سن۔ یاس) (س۔ ۱-۱) مذ (دینا چھوڑ دینا۔ فقیری یلنا۔ قطع علاقہ۔
 سنیاسی - (سن۔ سن۔ یاس) (س۔ ۱-۱) مذ (بند و فقیر جس نے دنیا کو چھوڑ دیا ہو۔ تاکہ اللہ دنیا (۲) جنگی جڑی بوٹیوں کا ماہر۔ وید۔
 سنپچر (وار) - (سن۔ نی۔ پچر) (۱-۱) مذ (۱) پختے کا دن۔ شنبہ (۲) بد نصیبی کوست (۳) سیارہ زحل جو ٹھوس شمال کیا جاتا ہے۔
 سنپچر آنا - (۱-۱) محاورہ) اداوار آنا۔ بڑی گھڑی آنا۔ کوست کے سارے زل کے اثر میں آنا۔
 سنپچر سوار ہونا - (۱-۱) محاورہ) چکر میں پڑنا۔ گھومتے پھرنا۔
 سینما - (Cinema) (انگ۔ ۱-۱) مذ (وہ ایجاد جس سے تصویریں پردے پر حرکت کرتی دکھائی دیتی ہیں اور جتنی بھی ہیں۔
 سینن - (سن۔ سن۔ ۱-۱) مذ (سنسکریٹ) کئی یا بہت سے سال۔
 سنے کو ریم - (Sanatorium) (سن۔ نے۔ ٹو۔ ایم) (انگ۔ ۱-۱) مذ) ایسی علاج گاہ جو کسی صحت افزا مقام پر بنی ہوئی ہو۔

س۔و

سنو - (۱-۱) صف (۱) پانچ بیسی۔ ننانوے اور ایک۔ سینکڑا۔ (۲) کثرت سے۔ بہت (۳) بہر صورت۔ ہر چند۔
 سوبات کی ایک بات - (۱-۱) مست) (۱) بنائیت معقول اور تجربے کی بات۔ عمدہ بات (۲) الحاصل۔ قبضہ مختصر۔ خلاصہ۔
 سو پوسے - (۱-۱) متعلق فعل) یقیناً۔ بالکل درست۔ بہر صورت۔ گمان غالب۔
 سو جان سے صدقے - (۱-۱) محاورہ) بہت زیادہ محبت ظاہر کرنے کے لیے بولتے ہیں۔
 سو جان سے عاشق ہونا - (۱-۱) محاورہ) بے حد شیدا ہونا۔ انتہائی فریفتہ ہونا۔
 سو جتن کیے - (۱-۱) محاورہ) (۱) بہت کوشش کی (۲) سارے پھیلے اور کھرد فریب کر دیئے۔
 سو چھپائیں - (۱-۱) محاورہ) کسی طرح بھی پوشیدہ کریں۔
 سو دن چور کے تو ایک دن سادھ کا - (۱-۱) مثل) سو دفعہ شریر آدمی کی پھلے گی تو ایک دفعہ شریف کی بھی بن آئے گی۔ چور ایک دن ایک دن مزدور پکڑا جاتا ہے۔
 سو دو سو میں - (۱-۱) متعلق فعل) اکثر میں۔ بہت سوں میں۔
 سو رستے ہیں - (۱-۱) محاورہ) بہت سی تدبیریں ہیں۔ بہت سے طریقے ہیں۔
 سو سر کا ہونا - (۱-۱) کسی ایک آدمی کا اپنی دانش مندی یا طاقت کی وجہ سے بہت سے آدمیوں پر بھاری ہونا (۲) ثابت قدم یا اٹل ہونا۔
 سو سار کی ایک لولا کی - (۱-۱) مثل) کم زور کی سو سوز میں زبردستی کی ایک

سنواری - (۱-۱) مست (۱) درست کرنا۔ آراستہ کرنا (۲) ترتیب سے لگانا۔ مہذب بنانا۔ راہ پر لانا۔
 سنواریا - (سن۔ ذر۔ نا) (۱-۱) مست (۱) درست ہونا۔ سبنا۔ آراستہ ہونا۔ پورا ہونا۔ انجام کو پہنچنا (۲) ترتیب سے گنا (۳) سُدرنا۔ چال چلن درست ہونا (۴) تعریف کرنا (ق)۔
 سنون - (سن۔ نون) (ع۔ ۱-۱) مذ (دانتوں کا منجن۔
 سنہ - (سن۔ ۱-۱) مذ (سال۔ برس۔ سمت۔ جمع۔ سنین۔
 سنہ جلوس - (ع۔ ۱-۱) مذ (وہ سنہ جو کسی بادشاہ کی تخت نشینی سے شروع ہو کر اس کی فرما زوائی تک جاری رہتا ہے۔
 سنہ رواں - (ع۔ ۱-۱) مذ (جو سال گزر رہا ہو۔
 سنہ عیسوی - (ع۔ ۱-۱) مذ (سنی سال جس کا حساب حضرت مسیح کی پیدائش سے کیا جاتا ہے۔
 سنہ بھری - (ع۔ ۱-۱) مذ (قریبی سال جو رسول اللہ کے مکہ منظر سے مدینہ منورہ کو ہجرت کرنے کی تاریخ سے شروع ہوا۔
 سنہرا۔ سنہری - (سن۔ نہ۔ را) (سن۔ نہ۔ ری) (۱-۱) مست (۱) سونے کا۔ نرین (۲) سونے کے رنگ کا۔ زرد۔ پیلا۔
 سنٹی - (سن۔ نی) (ع۔ ۱-۱) مذ (مسلمانوں کا وہ فرقہ جو غنائے راشدین کو برحق مانتا ہے۔ اہل سنت والجماعت۔ سنت رسول اللہ پر چلنے والا گروہ۔
 سنی ان سنی کرنا - (سن۔ نی۔ ان۔ سن۔ نی۔ کر۔ نا) (۱-۱) محاورہ) (۱) بات سن کر ماننا (۲) ایسا ہی ہر کرنا جیسے بات سن نہیں۔ توجہ نہ کرنا۔

مضب کے برابر بھی نہیں ہوتیں۔

سوسو - (استغنی فعل) بہت بہت کثرت سے۔ باافراط۔

سوسویل کھانا - (۱- محاورہ) بہت زیادہ مٹھے میں ہونا۔ نہایت پیچہ دتاب کھانا۔

سوسو پھیرے کرنا - (۱- محاورہ) بہت پکر لگانا۔

سوسوکوس (دور) بھاگنا - (۱- محاورہ) پاس نہ پھسکانا۔ الگ الگ رہنا۔ بہت زیادہ پرہیز کرنا۔

سوسو گھڑے پانی پڑنا - (۱- محاورہ) سخت شرمندہ ہونا۔

سوسومن کے پاؤں جو ہوجانا - (۱- محاورہ) گھبراہٹ کے باعث چل نہ سکا۔

سوسونام دھرنا - (۱- محاورہ) بہت کتہہ مہینی کرنا۔ بہت عیب نکالنا۔

سویانے ایک مت - (۱- مثل) جتنے دانہ ہوں گے۔ سب کی رائے ایک جیسی ہوگی۔

سوغلاموں گھر سونا - (۱- مثل) اگر مزہ نہ ہو تو سینکڑوں غلام ہونے کے باوجود گھر غالی لگتا ہے۔

سوںکی ایک بات - (۱- مثل) عمدہ بات۔ نخب بات۔

سوںکی لاشی ایک کابلوچھ - (۱- مثل) تھوڑا تھوڑا سہارا بھی بہت ہوجاتا ہے

سوںگڑ پھاڑیں ایک نہ واریں - (۱- مثل) بظاہر محبت جتنا کر موقع یا ضرورت کے وقت الگ ہوجانا۔

سومارے ننانوے سے بھول جائے - (۱- مثل) اس قابل ہے کہ

سومارے ایک کئے برابر مار پڑتی رہے۔ سومن کا - (۱- صفت) بہت ذہنی۔ بہت بھاری۔

سومیں ایک - (۱- صفت) بہت کم۔ بہت فیصل۔

سومیں کہنا - (۱- محاورہ) کئے طور پر کہنا۔ سب کے سامنے کہنا۔

سونکٹوں میں ایک ناک والا نکو - (مثل) بہت سے عیب داروں

میں ایک بے عیب۔ سب سے زیادہ جیسی خیال کیا جاتا ہے۔ سوزنڈیل میں ایک شریف بدنام درسوا سمجھا جاتا ہے۔

سودو - (۱- مثل) بُرائی۔ بدی (۲) بیماری۔ مرکبات میں جیسے سوہنم۔

سودمزاج - (۱- مثل) مزاج کی خرابی۔

سو - (۱- مثل) سمت۔ جانب۔ طرف۔

سو - (واؤ ببول) (۱) وہ جو۔ تو۔ اس لیے۔ اس واسطے (۲) مصدر سونا کا مینڈا امر۔

سوا - (س - وا) (۱) صفت (۱) ایک اور اس کا چوتھی حصہ۔ پورا اور ایک چوتھی زیادہ۔ (۲) اسم

سوا اینٹے پر سورج (آفتاب) آنا - (۱) آثار قیامت نمودار ہونا (۲) شدید ترین گرمی پڑنا۔

سوا - سوائے - (س - وا) (س - وا - ئے) (۱) بیزیر۔ علاوہ۔ بجز۔ (۲) زیادہ۔ خالصتہ۔

سوا - (سوا - آ) (۱) مذ (۱) بڑی سونی۔ موٹی سوٹی (۲) طوطا۔

سواہتی - (۱- مذ) سابقہ کی جمع۔

سواہل - (س - وا - ہل) (۱- مذ) ساحل کی جمع۔ پانی کے کنارے۔

دریا۔ جمیل۔ سمندر و دینہ کے کنارے۔

سواد - سواد - (س - وا) (س - وا) (س - وا) (۱- مذ) (۱) مزہ۔ ذائقہ۔ چاٹ (۲) لذت۔ لطف (۳) فرحت۔ خوشی۔ محبت۔ اخلاص۔

سواد - (س - وا) (۱- مذ) (۱) سیاہی۔ کالک (۲) سیاہ نقطہ جو دل پر ہوتا ہے (۳) حوالی شہر۔ آس پاس۔ گردنواح (۴) ذہن۔ ملک۔ (۵) گھنا (۶) بڑی تعداد۔

سواد پڑنا - (۱- محاورہ) چسکا پڑنا۔ مزہ پڑنا۔ عادت ہونا۔

سوادِ انکلم - (۱) بڑا شہر (۲) کثیر تعداد۔ اکثریت۔ غالب حصہ۔

سوار - (س - وار) (۱- مذ) (۱) جو پیدل نہ ہو (۲) دکانیا (۳) مست۔ بتولا (۳) رسالے کا طرز و صنف (۴) پڑھا ہوا۔ سواری پر بیٹھا ہوا۔

سوار بنانا - (۱- محاورہ) سواری سکھانا۔

سوار - (س - وار) (۱- صفت) (۱) ایک قسم کی گھاس۔

سوارت - (س - وار) (۱- صفت) (۱) اچھے کام میں آنا۔

سوارت کرنا - (۱- محاورہ) استعمال میں لانا۔ کامیاب بنانا۔ سود مند کرنا۔

سواری - (س - وا - ری) (۱- صفت) (۱) گھوڑے پر چڑھنے کا کام۔

(۲) وہ حیوان یا چیز جس پر سوار ہوا جائے (۳) جلوس (۴) کشتی کا ایک داؤں (۵) جو سوار ہو (۶) ہمرکاب۔

سواری آنا - (۱- محاورہ) (۱) تشریف لانا (۲) جلوس آنا۔

سواری اتروانا - (۱- محاورہ) جو عورت ڈولی گاڑی دینہ میں آئے اسے ڈیڑھی سے جا کر لانا۔

سواری دینا - (۱- محاورہ) سواری کا کام دینا۔

سواری دگنا لینا - (۱- محاورہ) پڑھنا۔ سوار ہونا۔

سواری لگنا - (۱- محاورہ) سوار ہونے کے لیے ڈیڑھی پر پاگی دینہ کارکھا جانا۔

سواگت - (س - وا - گت) (س - وا - مذ) (۱) خوش آمدید۔ آدبگت (۲) سلام۔ آداب۔

سوال - (س - وال) (۱- مذ) (۱) پوچھنا۔ دریافت کرنا (۲) درخواست مانگ۔ اتماس طلب (۳) استفسار۔ پرسش (۴) (أر) دعوئے یا عرضی۔ دعویٰ (۵) گزارش۔ عرض داشت (۶) بیگ مانگنا (۷) مسئلہ۔

سوال - (س - وال) (۱- مذ) (۱) بیک مانگنا (۲) مسئلہ۔ عینتہ۔ عمل طلب بات (۳) ریاضی یا اقلیدس کا جواب طلب مسئلہ۔

سوال از آسمان جواب از آسمان - (۱- مثل) سوال کچھ اور جواب کچھ۔ اُدٹ پٹانگ جواب۔

سوال پورا ہونا - (۱- محاورہ) مانگی ہوئی چیز کا ملنا۔

سوال بجز - (۱- مذ) (۱) وہ سوال جو ایک فرد نے اپنے مخالف کے گرد ہوں سے کرتا ہے۔ دلیل کاٹنے والا سوال۔ تردیدی سوال۔ گرفت کرنے والا سوال۔

سوال جواب - (۱- مذ) (۱) گفتگو۔ بات چیت (۲) مباحثہ۔

سوال حل کرنا - (۱- محاورہ) مشکل مسئلہ حل کرنا۔ کوئی عقدہ یا گتھی کھولنا۔

سوال خوانی - (۱- صفت) (۱) عدالت میں دعوے یا عرضی دہانے کا پڑھا جانا۔

سوال در سوال - (۱- صفت) (۱) مذ سوال کا جواب دینے کے بجائے

اسی سوال پر ایک اور سوال کر دینا۔
سوال دیگر جواب دیگر - رن - پیش - سوال کچھ جواب کچھ -
سوال ڈالنا - (۱۰۔ محاورہ) التبا کرنا (۱۱) رشتہ طلب کرنا۔
سوال کی صورت - (۱۱۔ صفت) جس کی شکل سے ہی اندازا ہو جائے کہ کچھ مانگتا ہے
سوال رو کرنا - (۱۱۔ محاورہ) سوال نامہ منظور کرنا۔ صیکہ نہ دینا۔
سوال ممتعم (قانون) - (۱۰۔ مذ) وہ درخواست جو اس مقام کی کمی پوری کرنے
کے لیے دی جائے۔
سوال مرممت (قانون) - (۱۰۔ مذ) مرضی کی درستی یا ترمیم کا مطالبہ۔
سوال مؤصل الی المطلوب - پوچھنے والے کے مطلب تک پہنچانے
والا سوال۔
سوال نامہ - (ع۔ ف۔ ن۔ ۱۔ مذ) جواب طلب امور کی فہرست -
(Questionnaire)
سوالات - (ر۔ ج۔ وا۔ لات) (ع۔ ۱۔ مذ) سوال کی جمع -
سوالی - (ر۔ ج۔ وا۔ لی) (ع۔ ف۔ ۱۔ مذ) وصف (۱۱) سوال کرنے والا۔
(۱۲) مانگنے والا۔
سوامی - (س۔ وا۔ می) (س۔ ۱۔ مذ) آقا۔ مالک - حاکم - خدا (۱۳) شوہر
خاندان - خصم (۱۴) گرو - پیر (۱۵) حضور - قبلہ - حضرت -
سوال - (ع۔ ۱۔ مش) قسمیں -
سوانا - سوانہ - (س۔ وا۔ نا) (س۔ وا۔ نہ) حد کرنا۔ مینڈھ -
سوانج - (س۔ وا۔ نج) (ع۔ ۱۔ مذ) (۱۱) ساختہ کی بیج - واقعات - حادثات
روئے داد - حالات -
سوانج نگری - (ع۔ ۱۔ مش) کسی شخص کی زندگی کے حالات - تذکرہ -
سوانج نگار - (ع۔ ف۔ صفت) (۱۱) واقعہ نویس - اخبار نویس - نامہ نگار
(۱۲) (۱۳) کسی شخص کے حالات زندگی کھنے والا -
سوانگ - (س۔ وانگ) (ع۔ ۱۔ مذ) شیدہ - تماشا - کھیل - نقل - ہروپ -
سوانگ بھرنا - (۱۰۔ محاورہ) ہمیں بدن (۱۲) فریب دینا -
سوانگیا - (س۔ وانگ) (یا) (ع۔ صفت) (۱۱) ہرودیا - روپ بھرنے اور
دکھانے والا (۱۲) شیدہ باز - نگار - فریبی - دغا باز - بیچارہ -
سواں - (س۔ وا۔ ہ) (س۔ صفت) (۱۱) جو مالک یا جسم ہو گیا ہو (۱۲) (۱۰۔ مذ)
وہ کلمہ جو یوم یا جگ کرتے وقت کہتے ہیں -
سواہا (گرنا) کر دینا - (ع۔ ۱۰۔ محاورہ) (۱۱) جلا کر رکھ بنا دینا (۱۲) خاکہ کر دینا -
دُھول اڑا دینا کچھ باقی نہ رکھنا۔
سوالی - (س۔ وا۔ ای) (ع۔ ۱۔ مذ) وہ غلہ جو کاشت کار کو بیج کے واسطے
اس شرط پر دیا جائے کہ نفل پر سمن کا سوا سن لیا جائے گا - (مش) وہ
زمین جس میں سوائے چاول کے سب غلے پیدا ہوتے ہوں - اسے
میسن - دوسٹ - سیونا - میگون - پڑوا - کار بھی کہتے ہیں -
سوانی - (س۔ وا۔ ای) (ف۔ صفت) (۱۱) فالتو بھول سے زیادہ -
سوائے - (س۔ وا۔ اے) (ع۔ حرف استثناء) (۱۱) علاوہ - (۱۲) (صفت)
زیادہ - فالتو - بیش -
سواہا - (س۔ وا۔ یا) (ع۔ صفت - حد کسری) (۱۱) ایک اور چھاتی پلم

(۱۲) زیادہ - بڑھا ہوا - بیش -
سوما سون - (ع۔ ۱۰۔ مش) خوشبو -
سوجھا - (س۔ جھا) (ع۔ ۱۰۔ مش) (۱۱) زینت - زیبائش (۱۲) خوبصورتی (۱۳)
شان و شوکت (۱۴) رونق (۱۵) عزت اُردو -
سوپ - (Soap) (انگ - ۱۰۔ مذ) صابن -
سوپ - (Soup) (انگ - ۱۰۔ مذ) چینی - شور بہرہ - آب جوش -
سوٹ - (ع۔ ۱۰۔ مذ) (۱۱) ہاج - اناج پھٹنے کا آلہ (۱۲) پانی پینے کا ٹوکرا -
سوٹ تو سوپ چھلنی کیا بولے جس میں بہتر سوچھید - (شل) بے باغ
چال چلن والا اگر شیخی کرے تو بجا ہے - یہی کر زبان کھولنے سے پہلے اپنے عیب
دیکھ لینا چاہیے -
سوپ سٹی وارٹھی - (ا۔ مش) بڑی اور گھنی وارٹھی - وارٹھی جو چھاتی پر
چھائی ہوتی ہو -
سوٹ - سوٹن - (سوٹ) (سوٹن) (ع۔ ۱۰۔ مش) ایک خانہ دار کے دو یا زیادہ
بیویاں آپس میں ایک دوسرے کی سوٹ کہلاتی ہیں -
سوٹ بھلی سوٹلا بڑا - (ا۔ ریش) سوگن کی اولاد سوگن سے زیادہ ناگوار
اور خطرناک ہوتی ہے -
سوٹ پر سوٹ اور جلا پا - (ا۔ مثل) ایک دشمن کے ہوتے دوسرا دشمن
آجانے سے دل اور زیادہ ہلاتا ہے -
سوٹ چوں کی بھی بڑی - (ا۔ مثل) دشمن کتنا ہی بے حقیقت ہو پھر بھی
اس سے نقصان پہنچ سکتا ہے -
سوٹ کا لانا جی کا جلا نا - (ا۔ مثل) دوسری عورت کرنا پہلی عورت
کو زندہ دو گور کرنا ہے -
سوٹ (سوٹا) - (سوٹ) (سوٹا) (واڈ بھول) (ا۔ مش) (۱۱) نکاس
پانی نکلنے کی جگہ - منبع - سرچشمہ -
سوٹ جاری ہونا - چشمہ جاری ہونا -
سوٹ - (واڈ مردف) (ع۔ ۱۰۔ مش) (۱۱) تاگا - دھاگا - تار (۱۲) سیدھ دیکھنے
کا ڈورا - پٹنال (۱۳) ریشہ (۱۴) ٹوکا سولھوں حصہ -
سوٹ اٹیرنا - (۱۰۔ محاورہ) سوٹ پینٹنا یا چرخی یا ایٹرن پر چڑھنا -
سوٹ باندھنا - (۱۰۔ محاورہ) سیدھ باندھنا - سیدھ دیکھنے کا ڈورا لٹکانا -
سوٹ کی انٹی اور یوسف کی خریداری - (ا۔ مثل) تھوڑی سی منیت
پر بڑا حاصل -
سوٹ کے بنونے ہو جانا - (۱۰۔ محاورہ) بنا بنا یا کام بگڑ جانا -
سوٹ نہ کیاس کوئی سے ٹھم لٹھا - (ا۔ مثل) خواہ خواہ کا جھگڑا بے نیا
بات پر شاد -
سوٹا یا (سوٹیا ڈاہ) - (ع۔ ۱۰۔ مذ) دوسوگوں کے درمیان دشمنی - سوکانا -
سوٹا سفار چاگتا پروردگار - (ا۔ مثل) وہ گھر جو داستان گو کہانی شروع کرنے
سے پہلے کہتے ہیں - رات کا سنسان ہونا -
سوٹنگ - (سوٹنگ) (س۔ ۱۰۔ مش) بچے کی پیدائش کے وقت
کی ٹاپا کی -
سوٹوال (سوٹوال) - (ا۔ صفت) سوٹوا ہوا - پیلا - باریک -

سو توواں (ستواں) ناگ - (۱) مٹ، تیلی ناگ - خوبصورت ناگ۔
 سوتنا - (سوت، نا، دہ - مٹ) (۱) پھوڑنا (۲) پھوڑنا (۳) کھینچ لینا۔
 سوتی - (سوت، تی) (دہ - صفت) سوت کا - سوت کا بنا ہوا۔
 سوتی - (دہ - صفت) سوتی ہوئی - بھند میں جو۔
 سوتی (بھڑ) بھڑیل جگانا - (۱) محاورہ) نئے برس سے فدا کھانا - پڑانے جھگڑے تازہ کرنا۔
 سوتیاہ ڈاہ - سوتا پے کی تکلیف مشہور ہے۔
 سوتے - (دہ - صفت) سوتے ہوئے - سوجانے کی حالت۔
 سوتے جاگتے منہ دیکھنا - (۱) محاورہ) ہر وقت توقع رکھنا - امید باندھے رہنا۔
 سوتے فلتے اٹھانا جگانا - (۱) محاورہ) دیے ہوئے جھگڑے نکالنا۔
 سوتے کا سوتا رہنا - (۱) محاورہ) (۱) نیند کی حالت میں پڑا رہ جانا (۲) سوتے میں مر جانا۔
 سوتے لڑکے کا منہ چومنا نہ ماں خوش نہ باپ - (۱) مثل) بیز اطلاع کے بیکر کرنا رانیاں ہے۔
 سوتے مڑے جگانا - (۱) محاورہ) ہنگامہ برپا کرنا - شور وغل مچانا۔
 سوتے نصیب جگانا - (۱) محاورہ) اقبال یاد رہنا - تباہی کے بعد اچھے دن آنا - دن پھرنا۔
 سوتیلا - (سوتے - لا) (دہ - صفت) سوت یا سوکن سے تعلق رکھنے والا۔ اولاد بھائی بہن یا ماں باپ براصل نہ ہوں۔
 سوٹ - (Suit) (انگ - ۱) مذ) کپڑوں کا جوڑا - خصوصاً ایک ہی کپڑے کا کوٹ، پٹنوں، واسکٹ یا ٹیکر اور بریس یا ٹیمس شلوار وغیرہ۔
 سوٹ کیس - (Suit Case) (انگ - ۱) مذ) کپڑے رکھنے کا چھوٹا کس۔
 سوڈ بوٹڈ - (Suited Booted) (سوڈ بوٹڈ - بوٹڈ) (انگ - صفت) سوٹ اور بوٹ پہنے ہوئے - انگریزی وضع کا۔
 سوٹنگ - (Suiting) (سوڈنگ) (انگ - ۱) مذ) سوٹ کا کپڑا۔
 سوچا - (سوچ، جا) (دہ - ۱) مذ) (۱) برما (۲) سوا (۳) صفت) درم کیا ہوا۔
 سوچانا - (سوچانا) (دہ - صفت) (۱) نیند آجانا (۲) سُن ہو جانا۔
 سوچن - (سوچن) (دہ - ۱) صفت) درم - آنا۔
 سوچنا - (سوچ، نا) (دہ - صفت) (۱) درم کرنا - سوچن پڑھنا (۲) غٹھے یا بد مزاجی سے منہ پھلانا۔
 سوچھ - (دہ - ۱) مٹ) (۱) عقل، فہم (۲) مینائی - بصارت - نظر۔
 سوچھ بوچھ - (۱) مٹ) عقل و فہم - دور اندیشی۔
 سوچھتا کرنا - (سوچھتا - کرنا) (دہ - صفت) بندوبست کرنا - تدبیر کرنا - فکر کرنا۔
 سوچھنا - (سوچھ - نا) (دہ - صفت) (۱) نظر آنا - دکھائی دینا - آنکھ سے معلوم ہونا (۲) خیال آنا - ذہن میں آنا (۳) قیز ہونا (۴) دھن ہونا (۵) آثار معلوم ہونا۔
 سوچی - (سوچی) (دہ - ۱) مٹ) (۱) روایات کے مغز کا در در آنا۔
 سوچے پھولے - (۱) صفت) منہ پھلانے ہوئے - خفا ناراض - آزر دہ۔
 سوچ - (دہ - ۱) مذ) (۱) فکر - خیال (۲) رنج و کم - اندوہ (۳) غور - دھیان - توجہ۔

سوچ آنا - (۱) محاورہ) فکر ہونا - تردد پیدا ہونا۔
 سوچ بچار - (۱) مٹ) فکر و تامل - غور و فکر۔
 سوچ - (Switch) (سٹ - دھکا) (انگ - ۱) مذ) وہ برقی سٹ جس کے دبانے سے تار میں برقی رو آتی اور بند ہوتی ہے۔
 سوچ بورڈ - (Switch Board) (دہ - صفت) جس پر سوچ لگے ہوئے ہوں۔
 سوچ سمجھ کے - (۱) تابع فعل) غور و فکر کے بعد - ہوش و حواس سے۔
 سوچنا - (سوچ، نا) (دہ - صفت) آب دست لینا - طہارت کرنا - اجابت کے بعد پانی لینا۔
 سوچنا - (سوچ، نا) (دہ - صفت) (۱) غور کرنا - دھیان کرنا (۲) سمجھنا بوجھنا۔
 بات کی کپڑی میں اترنا (۳) مراقبہ کرنا۔
 سوخت - (سوختی) (سوخت، ش - گی) (دہ - ۱) مٹ) (۱) جلن - سوزش - تکلیف (۲) رنج - صدر - غم۔
 سوختنی - (سوخت، ش - تی) (دہ - صفت) جلنے یا جلانے کے لائق۔
 سوختہ - (سوخت، تہ) (دہ - صفت) (۱) جلا ہوا - جھا ہوا - مجلسا ہوا (۲) مصیبت زدہ - افسردہ (۳) مجاذب - بلائنگ پیسہ۔
 سوختہ پال - (دہ - صفت) بے بس جس کے پر جل چکے ہوں۔
 سوختہ بخت - (دہ - صفت) بد نصیب - بد قسمت۔
 سوختہ پا - (دہ - صفت) جلد جلنے والا - تیز قدم۔
 سوختہ تن (جان - جگر) - (دہ - صفت) دل جلا - کنا تیا عاشق۔
 سوختہ سامان - (دہ - صفت) جس کا سب کچھ جل گیا ہو (۲) تباہ و برباد۔
 سوختی - (سوخت، تی) (دہ - ۱) مٹ) (۱) کھفت - رنج - تکلیف۔
 سوڈ - (دہ - ۱) مذ) (۱) قرض دیے ہوئے روپے پر نفع - بیاج (۲) نفع - فائدہ (۳) جھلائی - بہتری۔
 سوڈ پٹا - (۱) مذ) نفع و نقصان۔
 سوڈ خالص - (دہ - ۱) مذ) (۱) اصطلاح بنکاری) سود کی متقی رقم بعد وضع اخراجات باقی رہے۔
 سوڈ خوار - سوڈ خور - سوڈ خورا - (دہ - صفت) سود پر روپیہ چلانے والا - بیاج کھانے والا۔
 سوڈ در سوڈ - (دہ - ۱) مذ) وہ سود جو قرض دی ہوئی رقم میں سود شامل کر کے کل رقم پر لگایا جائے۔
 سوڈ مند - (دہ - صفت) میند - فائدہ بخش۔
 سوڈا - (سوڈا) (دہ - ۱) مذ) (۱) سیاہ - کالا (۲) سیاہ خلط کا نام - جلا ہوا بلغم (۳) دہ) خلط - دیوانگی (۴) عشق - مومن - گلن (۵) خرید و فروخت - بیوپار (۶) اردو کے مشہور شاعر مرزا محمد رفیع کا تخلص۔
 سوڈا اچھلنا - (۱) محاورہ) پاگل پن کا زور ہونا۔
 سوڈا بگاڑنا - (۱) محاورہ) طے شدہ معاملہ کو خراب کرنا۔
 سوڈا دینا - (۱) محاورہ) قیمت طے ہونا - بھاد مقرر ہونا - نرخ طے پانا۔
 سوڈا دست بدست ہونا - (۱) محاورہ) کسی چیز کا نقد فروخت ہو جانا۔

سودا سلف - (۱۔ مذ) بازار سے خریدی ہوئی چیزیں۔

سوداگر - (ن۔ صفت) تاجر۔ بیوپاری۔

سوداگری - (ن۔ صفت) تجارت۔ بیوپار (صفت) تجارت سے متعلق۔

سوداگری کرنا - (ا۔ محاورہ) تجارت کرنا۔ کاروبار کرنا۔ بیوپار کرنا۔

سودا مول لینا - (ا۔ محاورہ) (۱) کوئی چیز خریدنا (۲) کوئی ذمے داری اپنے

سر لینا۔

سودا نہ ہونا - (ا۔ محاورہ) معاملہ نہ بننا۔ قیمت پر اتفاق نہ ہونا۔

سوداوی - (س۔ و۔ ای) (دع۔ صفت) (۱) سودا سے متعلق (۲)

ٹیکس۔ پیغم۔

سوداوی مزاج - (ع۔ صفت) وہ شخص جس میں سودا کی نغلا غالب ہو۔

جنونی آدمی۔

سوداٹی - (س۔ و۔ ای) (دع۔ صفت) (۱) دیوانہ۔ پاگل۔ جنونی۔

تنبلی۔ احمق۔

سودائے خام - (ن۔ ا۔ مذ) خام خیالی۔

سودہ - (س۔ و۔ ذہ) (ن۔ ا۔ مذ) کسی چیز کا برادہ۔ وہ چیز جو گھسنے سے

عاسل ہو (جیسے سودہ صندل) گھسا ہوا صندل۔

سودھ بھٹی - (س۔ و۔ ذہ۔ بھٹ۔ ٹی) (دع۔ ا۔ صفت) (اصطلاح علم کیا)

پکی دھات کو پگھلانے کی بھٹی۔

سودھا - (ع۔ صفت) سیرھا۔ صاف (۲) بھولا بھالا۔ سادہ۔ سچا۔

سودھن - (س۔ و۔ دھن) (دع۔ ا۔ مذ) (۱) تہذیب۔ شائستگی۔ لطافت پاکیزگی

(۲) اصلاح۔ درستی۔

سودھنا - (س۔ و۔ نا) (دع۔ صم۔ اصطلاح علم کیا) پکی دھات کو پگھلا کر

صاف کرنا۔

سودھی - (ا۔ صفت) پاک صاف۔ اچلا۔ نہیں۔ کھرا۔ سچا۔

سودی - (س۔ و۔ دی) (ن۔ صفت) وہ روپیہ جو سود پر لیا یا دیا جائے۔

سودیش - (س۔ و۔ ا۔ مذ) اپنا ملک۔ اپنا وطن۔

سودیشی - (س۔ و۔ دے۔ شتی) (دع۔ صفت) اپنے دیس کا۔

سودا - (Soda) (س۔ و۔ ڈا) (انگ۔ ا۔ مذ) (۱) سودیم کا کھار (۲)

وہ پانی جو سوڈے سے بنایا جائے۔ سودا واٹر۔

سودا بائیکارب - (Soda Bicarb) (انگ۔ مذ) ایک

مرکب دوا جو ہاضمے کے لیے سفید ہے۔

سودا واٹر - (Soda Water) (انگ۔ مذ) سوڈے سے بنایا ہوا پانی۔

سودیم - (Sodium) (س۔ و۔ ڈیم) (انگ۔ ا۔ مذ) ایک قسم کی

دھات جو سوڈے کے اندر ہوتی ہے اور اسے جلانے سے سفید

شکل نکلتا ہے۔

سوڈے کا جوش یا سوڈے کا ساہا بال - (ا۔ مثل) (دع۔ ا۔ صفت) اور عارضی جوش۔

سودہ - (س۔ و۔ صفت) بہادر یا شجاع آدمی۔ مرد غازی۔

سودیر - بڑا بہادر۔ سورما۔ شجاع۔

سور - (سور) (س۔ و۔ ذہ) (انگ۔ ا۔ مذ) (۱) خنزیر۔ خوک (۲)

(صفت) شہر۔ بدذات (۳) (انگ۔ ا۔ مذ) ایک گالی (۴) غصے یا ناراضگی

یا عتاب کے اظہار کا کلمہ۔

سورات - (ن۔ خود مرئی۔ عرض مطلب۔ جرم۔

سوراج - (س۔ و۔ راج) (دع۔ ا۔ مذ) حکومت خود اختیاری۔ اپنے دیس

میں اپنا راج۔

سوراج - (س۔ و۔ راج) (دع۔ ا۔ مذ) (۱) چھید۔ روزن۔ رخنہ۔ بل۔

موکا (۲) درز۔ دراڑ۔ بھری (۳) منہ۔ دہانہ۔ موری۔

سوراگنا - (ن۔ صفت) سورج طلوع ہونا۔

سورانہ - (ن۔ صفت) بے تاب ہونا۔

سورت - (سورۃ) - (سورۃ) (دع۔ ا۔ صفت) قرآن مجید کا کوئی باب

یا فضل۔ حج۔ سور۔

سورج - (سور۔ رَج) (دع۔ ا۔ مذ) شمس۔ نورشید۔ آفتاب۔

سورج بنسی - (س۔ و۔ ا۔ مذ) راجپوتوں کی ایک قوم جو خود کو سورج کی

اولاد خیال کرتی ہے۔ راجہ رام چندری اسی قوم سے تھے۔

سورج خاک ڈالنے سے نہیں چھپتا - (ا۔ مثل) کھلی بات کو چھپایا

نہیں جاسکتا۔

سورج ڈوبتے ڈوبے - (ا۔ متعلق فعل) سورج چھپنے کے وقت۔

شام کے وقت۔

سورج ڈوبنا - (صم۔ مرکب) سورج چھپنا۔ آفتاب غروب ہونا۔

سورج سنسار - نظام شمس۔ دنیا۔

سورج کو چراغ دکھانا - (ا۔ محاورہ) تجربہ کار کو عقل دینا۔ داناکو دانائی

کی بات بتانا۔ کامل کے سامنے ناقص کا بائیں بنانا۔

سورج کی کرن - (س۔ و۔ صفت) آفتاب کی شعاع۔

سورج (گرہن) گہن - (ا۔ مذ) چاند کا زمین اور سورج کے درمیان

آکر آفتاب کی روشنی زمین تک نہ پہنچنے دینا۔ کسوف گرفتگی آفتاب۔

سورج گھسی - (ا۔ صفت) ایک قسم کا زرد پھول جو سورج کے ساتھ ساتھ

اپنا رخ بدلتا جاتا ہے۔

سورگ - (س۔ و۔ ذہ) (دع۔ ا۔ صفت) سیکڑ۔ جنت۔

سورما - (سور۔ ما) (دع۔ صفت) بہادر۔ شجاع۔

سورما چٹا بھاڑ نہیں پھوڑ سکتا - (ا۔ مثل) اکیلا آدمی خواہ کتنا ہی

بہادر ہو بہت سے آدمیوں پر غالب نہیں آسکتا۔

سورن - (س۔ و۔ ا۔ مذ) زر۔ سونا۔ طلا۔

سورنجان - (سور۔ زن۔ جان) (دع۔ ا۔ صفت) ایک دوا جسے جنگلی

ننگھا ڈا بھی کہتے ہیں۔

سورنی - (سور۔ ذہ۔ نی) (دع۔ ا۔ صفت) (۱) سور کی مادہ (۲) بہت سے

بچے دینے والی عورت۔

سورہ - (سور۔ زہ) (دع۔ ا۔ مذ) قرآن شریف کا ایک باب یا ایک

فضل۔ سورۃ۔

سورۃ اخلاص - (ع۔ ا۔ مذ) قل ہواللہ کی سورۃ۔

سورۃ الیسین - (ع۔ ا۔ مذ) قرآن شریف کی ایک سورۃ جو حالت نزاع

میں موت کی سنتی دینے والے کے لیے سناتے ہیں۔

سوری - (ق) (۱) ایک پھول کا نام (۲) سرخ شراب۔

سوزیا بان - (ق) چتر - آفتاب گیری۔

سوز - (ن) (۱) مذ (۱) جلن - سوزش - دکھ - درد (۲) دُرا (۳) مرثیہ خوانی کی ایک

طرز (۴) اُردو کے ایک مشہور شاعر محمد میر دہلوی کا تخلص۔

سوز خواں - (ن) (۱) مذ (۲) خاص طرز پر مرثیے پڑھنے والا۔

سوزناک - (سو - ناک) (ن) (۱) مذ (۲) ایک مرض جس میں پیشاب سوزش

کے ساتھ آتا ہے اور پیپ نکلتی رہتی ہے۔

سوزش - (سو - زش) (ن) (۱) مٹ (۲) جلن - کھولن - درد - تکلیف۔

سوزن - (سو - زن) (ن) (۱) مٹ (۲) سُئی۔

سوزن کار - (ن) (۱) مٹ (۲) کڑھانی کرنے والا۔ سُئی کا کام کرنے والا۔

سوزن کاری - سُئی کا کام۔ کٹیدہ کاری۔

سوزنی - (سو - زنی) (ن) (۱) مٹ (۲) دُہرایا روئی بھرا کپڑا جس پر سوزن

کاری کی گئی ہو۔

سُوس - (ن) (۱) مذ (۲) گھڑیال - ایک قسم کا مگرچھ (۳) مٹھی۔

سُوس - (ن) (۱) مٹ (۲) شدت - تشنگی۔

سوسائٹی - (Society) (سو - سائی - ٹی) (۱) ٹانگ (۲) مٹ (۳) (۱)

سماج - معاشرہ - اجتماعی زندگی (۲) لوگوں کی مجتمعیت۔

سوسمار - (سُوس - مار) (ن) (۱) مذ (۲) ایک صحرائی جانور - گوہ۔

سوسن - (سو - سن) (ن) (۱) مٹ (۲) آسمانی رنگ کا ایک پھول جسے شعراء

زبان سے تشبیہ دیتے ہیں۔

سوسنا - (ق) (سو - سنا) (۱) جھیلنا - سہنا - برداشت کرنا۔

سوسنی - (سو - سنی - نی) (ن) (۱) مٹ (۲) آسمانی (۳) نیلا رنگ۔

سُوسو کرنا - (۱) محاورہ سردی کے مارے کا پینا۔

سُوسی - (۱) مٹ (۲) ایک قسم کا رنگین دھاری دار کیرا۔

سوشل - (Social) (سو - شل) (۱) ٹانگ - (مٹ) (۲) سوسائٹی

یا معاشرے سے متعلق (۲) میل جول رکھنے والا - غناسار - مل جل

کر بسر کرنے والا۔

سوشلزم - (Socialism) (سو - شل - ازم) (۱) ٹانگ (۲) مذ

دیجیے اشتراکیت۔

سوشلسٹ - (Socialist) (سو - شل - اسٹ) (۱) ٹانگ - (مٹ) -

درا - (۲) دیجیے اشتراکی۔

سوغات - (سو - غات) (ت - ۱) مٹ (۲) (۱) تحفہ - ہدیہ - عمدہ چیز۔

عجیب چیز۔

سُوفان - (ق) (۱) مذ (۲) مکان کا بڑا کمرہ۔

سُوفانار - (سو - فانار) (ن) (۱) مذ (۲) سوئی کا ناکہ (۳) تیر کی پتلی۔

سُوفتہ - (سو - فتہ) (ت - ۱) مذ (۲) سینٹا کا بگڑا ہوا - ہنلت - فرصت

(۲) نجات - چٹکارا۔

سُوفطانی - (سو - فس - طانی) (ن) (۱) مذ (۲) حکماء کا ایک گروہ جس کے

اہم لوگوں کی بنیاد روم پر ہے اور صحابہ سے منکر ہیں۔

سوفہ - (Sofa) (سو - فہ) (۱) ٹانگ (۲) مذ (۳) کوچ - کرسی کی ایک

قسم - صوفہ۔

سُوق - (ق) (۱) مذ (۲) بازار - بیچ، اسواق۔

سُوقیانہ - (سو - قی - یانہ) (ن) (۱) مٹ (۲) صفت (۳) بازاری - عوام کی

پسند کا - مبتذل۔

سُوک - (سو - ک) (۱) مذ (۲) زہرہ ستارہ - تاجید (۳) جمعہ۔

سوکا - (ق) (۱) مذ (۲) سر کے کیلے جو ماتھے پر لگائی جاتی ہے۔

سوکا - (سو - کا) (سو - ۱) مذ (۲) (۱) وہ فصل جو ادولوں سے سرجائے (۲)

قسط سالی - اساک باراں۔

سُوکن - (سو - کن) (سو - ۱) مٹ (۲) سوت - شوہر کی دوسری بیوی۔

سُوکھ کر پیچر ہو جانا - (۱) محاورہ (۲) نہایت ڈبلا ہو جانا - بدن پر گوشت نہ

ہونا - ہڈیاں ہی ہڈیاں نظر آنا۔

سُوکھا - (سو - کھا) (سو - ۱) مٹ (۲) خشک - کھرنک (۳) سکڑا ہوا بھیریاں

بڑا ہوا (۴) ڈبلا پتلا - لازم (۵) روکھا چھیکا (۶) مذ (۷) خشک سالی -

کال (۸) ہینگ (۹) خشک تباکو۔

سُوکھا پڑنا - (۱) محاورہ (۲) قسط سالی ہونا۔

سُوکھا (تالنا) ٹرخانا - (۱) محاورہ (۲) صاف انکار کرنا - باتوں میں ٹالنا۔

بے نیل مرام واپس کرنا۔

سُوکھا مُنڈ (مٹھی) - (۱) مذ (۲) خشک - سُوکھا درخت۔

سُوکھا جواب دینا - (۱) محاورہ (۲) صاف انکار کرنا۔

سُوکھا سہما - (۱) مٹ (۲) (۱) چُپ چُپ - خوف زدہ (۲) ڈبلا پتلا -

لاغر و نحیف۔

سُوکھا لگنا - (۱) محاورہ (۲) غم یا بیماری سے ڈبلا ہو جانا۔

سُوکھے اُسترے سے سرمند وانا - (۱) محاورہ (۲) پانی لگانے بغیر سرمند وانا

کر تکلیف زیادہ ہو۔

سُوکھے مگڑوں پر کتوں کی جہانی - (مٹ) (۲) ناداری میں عیش کی باتیں۔

غزنی میں امیر دولہا کی ریس۔

سُوکھے مگڑوں پر کوٹے اڑانا - (۱) مٹ (۲) قلیل اہمیت پر ذلیل کام کرنا۔

سُوکھے دھانوں پانی پڑنا - (۱) محاورہ (۲) یا بوسی کی حالت میں کام بن

جانا۔ نامرادی میں مراد پانا (۳) رنج کی حالت میں خوشی نصیب ہونا۔

سُوکھے ساون نہ رُوکھے بھادوں - (۱) مٹ (۲) بے فیض آدمی کے بارے

میں کہتے ہیں - بیچ مثل اس طرح ہے - سادوں سوکھے نہ بھادوں روکھے۔

سُوکھے کا آزار - (۱) مذ (۲) بچوں کا مرض (ق) - سُوکھا۔

سُوکھے گھاٹ اُتارنا - (۱) محاورہ (۲) یا بوس لوٹانا - محروم رکھنا۔

سُوکھے کر کاٹنا ہو جانا - (۱) محاورہ (۲) نہایت کمزور ہو جانا - ڈبلا ہونا۔

سُوکھنا - (سو - کھ - نا) (۱) مٹ (۲) (۱) واڈ پھول (۲) چوٹا - جذب کرنا (۳)

سُوکھنا - بہت زیادہ مقدار میں پینا۔

سُوکھنا - (سو - کھ - نا) (۱) مٹ (۲) (۱) واڈ پھول (۲) خشک ہونا (۳)

ڈبلا ہونا (۴) سکڑنا۔

سُوکھی - (سو - کھی) (سو - ۱) مٹ (۲) (۱) خشک شدہ - بے رطوبت جس میں تری

نہ ہو (۲) ڈبلی پتی - نحیف و ناتوان۔

سُوکھی الفتن - (ادست) (ہنڑا) ڈوبی پتل عورت - الف کی طرح -
 سُوکھی سنانا - (ادھی درہ) انکار کرنا -
 سُوکھی چٹائی کرنا - (ادھی درہ) کھانے کے درمیان پانی نہ پینا (۲) اینٹ
 گارے کے اینٹیں لگانا -
 سوگ - دن - ۱ - ۱ - مذ - ماتم - نم - رنج -
 سوگ (آٹارنا) آترنا - (ادھی درہ) ماتم کی مدت پوری ہونا - سیا پے
 سے نکالنا یا نکلنا -
 سوگ کرنا (منانا) - (ادھی درہ) مردے کا ماتم کرنا - رنج و غم کی
 حالت میں رہنا -
 سوگ میں بیٹھنا - (ادھی درہ) بیوہ کا اپنے مرے ہوئے خاوند کے
 غم میں ماتم کی صف میں بیٹھنا -
 سوگ وار - (ن - صف) معنوم - نگیں - ماتمی حالت میں - ماتم دار -
 سوگند - (سو - گند) دن - ۱ - ۱ - مٹ - قسم - قول - جہد -
 سوگی - (سو - گی) - ۱ - ۱ - صف - ۱ - ۱ - رنجیدہ - سوگوار - ماتم دار -
 سُول - (۱ - ۱ - ۱ - مذ) ۱ - ۱ - کاٹا - خار - (۲) برجھی کی نوک (۳) پیٹ کا درد -
 درد قلب - باڈوگلا (۴) چھین (۵) ترسول -
 سول - (Sole) (انگ - ۱ - ۱ - مذ) ۱ - ۱ - تلو - کف پا (۲) جوتے کا تلاء -
 (۳) صف - واحد - تبا - بلا شرکت غیرے -
 سول - (Civil) (رس - دل) (انگ - صف) ۱ - ۱ - غیر فوجی - بشہری
 (۲) انتظامی - تمدنی (۳) خلیق - ہندب - ملنار - بھلا مانس -
 سول جج - (Civil Judge) (انگ - ۱ - ۱ - مذ) دیوانی مقدمات
 فیصل کرنے والا جج -
 سول سرجن - (Civil Surgeon) (انگ - ۱ - ۱ - مذ) شہریوں کا
 اعلیٰ معیار اور صحت کے سرکاری عوامی ہسپتالوں کا نگران ڈاکٹر -
 سول سروس - (Civil Service) (انگ - ۱ - ۱ - مٹ) سرکاری
 ملازمت کا وہ شعبہ جس میں بڑے بڑے سول عہدہ دار ہوتے ہیں -
 سول کورٹ - (Civil Court) (انگ - ۱ - ۱ - مٹ) عدالت دیوانی
 وہ عدالت جس میں لین دین کے مقدمات ہوتے ہیں -
 سول لاء - (Civil Law) (انگ - ۱ - ۱ - مذ) قانون دیوانی -
 سول لبرٹی - (Civil Liberty) (انگ - ۱ - ۱ - مٹ) شہری آزادی -
 سول لسٹ - (Civil List) (انگ - ۱ - ۱ - مٹ) حکومت کی وہ فہرست جس
 میں تمام عہدیداروں کی مدت ملازمت اور تنخواہ وغیرہ کی مقدار درج ہوتی ہے -
 سول میریج - (Civil Marriage) (انگ - ۱ - ۱ - مٹ) وہ شادی
 جو مذہبی رسوم کے برعکس عدالت میں کی جائے - عدالتی شادی -
 سول نافرمانی - (Civil Disobedience) (انگ - ۱ - ۱ - مٹ)
 حکومت کے احکام کی تعمیل سے بلا تشدد انکار -
 سول وار - (Civil War) (انگ - ۱ - ۱ - مٹ) خانہ جنگی - ایک
 ملک کے مختلف طبقوں کی باہمی لڑائی -
 سُول - (۱ - ۱ - ۱ - مذ) ایک قبر کی پھیل -
 سوکھین - (ن - صف) خوش اطوار - نیک خصلت -

سولہ - (سو - ل) - ۱ - ۱ - صف - ۱ - ۱ - دس اور چھ - ۱۶
 سولہ سنگار - عورتوں کی نکل آرائش - دیکھو بارہ بُھرن سولہ سنگار -
 سولھوال - (۱ - ۱ - عدد) ترتیب میں بندہ کے بعد کا درجہ -
 سولھی - (سو - لھی) - ۱ - ۱ - مٹ - ۱ - ۱ - ایک کھیل جو سولہ کوزیوں سے کھیلا جاتا ہے -
 سُولی - (سُول - لی) (۱ - ۱ - مٹ) ۱ - ۱ - ایک چوٹی آلہ جس میں مجرموں کو لانتوں
 اور پاؤں میں سببیں ٹھونکر کر دیکھا دیتے تھے - چھانسی کا کھبا (۲) مجازاً
 مصیبت - ہلاکت - سخت تکلیف - ہر وقت کا خطرہ -
 سُولی پر بسر ہونا - (۱ - ۱ - محاورہ) کمال اضطراب اور بے چینی سے وقت گزارنا -
 سُولی پر بھی پیش آتی ہے - (۱ - ۱ - مثل) سخت ترین مصیبت میں بھی انسان
 کو نیند آجاتی ہے -
 سُولی پر جان ہونا - (۱ - ۱ - محاورہ) سخت مصیبت میں گرفتار ہونا -
 سُولی پر کھٹنا - (۱ - ۱ - محاورہ) بہت تکلیف میں زندگی بسر ہونا -
 سُولی پڑھانا - چھانسی دینا - دار پر کھینچنا (۲) بہت اذیت یا تکلیف دینا -
 سولین - (Civilian) (رس - دل - ۱ - ۱ - رس) (انگ - ۱ - ۱ - صف)
 غیر فوجی - انتظامی - سرکاری محکمے کا ملازم -
 سُولے - (ن - ۱ - ۱ - مذ) سردتا -
 سُولم - (رس - روم) (ن - صف) ۱ - ۱ - تیسرا - ثالث (۲) مردے کا تیما -
 تیسرے دن کی فاتحہ -
 سُولم - (۱ - ۱ - ۱ - مذ) کبوس - بیکل - شوم -
 سُولم کے گھر میں کتا پڑا - جائے نہ جانے دے - (۱ - ۱ - مثل) کبوس
 کے نوکر بھی ایسے ہوتے ہیں کہ نہ خود نادمہ اٹھاتے ہیں نہ دوسرے کو
 اٹھانے دیتے ہیں -
 سوم - (رادو - جوں) (۱ - ۱ - ۱ - مذ) ۱ - ۱ - چاند (۲) ملک الموت (۳) ایک بوٹی
 جس کا رس ہندو ڈراما مقدس خیال کرتے ہیں -
 سوم (نات) ناٹھ - (س - ۱ - ۱ - مذ) بھارت کا مشہور تاریخی بت خانہ -
 جسے محمود غزنوی نے فتح کیا - مجازاً بت خانہ -
 سوم وار - (س - ۱ - ۱ - مذ) چاند کا دن - دو شنبہ - پیر کا دن -
 سُولکھن - (ن - صف) خوش نما -
 سُولن - (ن - صف) -
 سُولن - (۱ - ۱ - ۱ - مٹ) قسم - سوگند - جہد - حلف - پیمانہ -
 سُولن - (۱ - ۱ - ۱ - مٹ) ۱ - ۱ - سکوت - خاموشی (۲) دم نفس - سانس (۳)
 شگون - نیک شگون -
 سُولن کھینچنا - (۱ - ۱ - محاورہ) چپ سا دھنا - خاموشی اختیار کرنا -
 سُولن کی لینا - (۱ - ۱ - محاورہ) چپ سا دھنا - خاموشی اختیار کرنا -
 سونا - (سو - نا) - ۱ - ۱ - ۱ - مذ) ۱ - ۱ - زرد رنگ کی شہسور دھات جس کے زیورات
 اور سکے وغیرہ بنتے ہیں - زر - طلا -
 سونا اُچھالنے چلے جاؤ - (۱ - ۱ - مثل) امن و امان اور خوش انتظامی کی
 تعریف کے موطن پر کہتے ہیں - جو رادو رہزن کا کوئی ڈر نہیں -
 سونا جانے کے ادنیٰ جانے لئے - (۱ - ۱ - مثل) سونا کو سولی پر لگانے
 اور آدمی پاس رہنے سے بچانا جاتا ہے -

سوننا جانڈی - (ہ-ا-مٹ) روپیہ- پیسہ - مال و دولت -
 سونا چھوٹے مٹی ہوتا ہے - (ا-ش) بد بخت اور بد اقبال آدمی کے
 بارے میں کہتے ہیں کہ جس چیز کو ہاتھ لگتا ہے نقصان پہنچاتا ہے -
 سونا سنگد - (ا-کھرا سونا - زرخا ص (۲) ابھی نسل یا اپنے خاندان کا - بہت
 قابل (۲) خالص - بے میل - معصوم - بیگناہ -
 سونا سنار کا، اُچھرن سنار کا - (ا-ش) سنار سونے میں بہت سا
 کھوٹ ملا دیتے ہیں - زبرد کی غمخوردی مانگ کے حصے میں رہ جاتی ہے
 اس وقت کہتے ہیں جب کوئی دعا سے لوگوں کا اہل کھگ لے -
 سونا گھسے آدمی لے - (ا-ش) سونا کسوٹی پر گھسنے سے اور آدمی کے
 ساتھ رہنے سے اس کی اصلیت کا پتہ چلتا ہے -
 سونا لے کے مٹی نہ دینا - (ا- محاورہ) بنایت نادر ہونا -
 سونا - (سو-نا) (ہ-میں) داؤد بھول (۱) بیند لینا - اُچھ لگنا (۲) مرنا - ہمیشہ
 کے لیے اُچھ بند ہونا -
 سونا - (سو-نا) (ہ-میں) داؤد بھول (۱) غالی - غیر آباد (۲) کیلا (۳)
 اُماڑہ - دیران - بے رونق (۴) سنسان - خاموش -
 سونا گھر بھڑوں کا راج - (ا-مٹ) جب کوئی لائق نہیں ہوتا تو نا اہلوں
 کی بن آتی ہے -
 سونا ہونا - غالی، سنسان یا بے رونق ہونا -
 سونپ سانپ دینا - (ا- محاورہ) کوئی چیز کسی کے حوالے کر دینا -
 سونپنا - (سو-پ) (نا-ہ-میں) (۱) پُر کرنا - حوالے کرنا (۲) کسی کے اعتبار
 پر چھوڑ دینا - امانت رکھنا -
 سونٹ مارے چلا جانا - (ا- محاورہ) پیکے سے چلا جانا -
 سونٹا - (سون) (ٹا) (ہ-ا-مٹ) ڈنڈا - بزم - کوئی لکڑی - عصا -
 سونٹا سے ہاتھ - (ا- مذ) ننگے ہاتھ (۱) عورتیں چوڑیوں سے غالی ہاتھوں
 کے بارے میں عورتا کہتی ہیں -
 سونٹے سے - بلا سے - کوئی پروا نہیں -
 سونٹھ - (ہ-ا-مٹ) (۱) سوکھی ادرک (۲) نادر چیز - بے بہا چیز (۳)
 بچل - بکوس -
 سونٹھ لسانا - (ا- محاورہ) (۱) کوئی قیمتی چیز خریدنا (۲) زیر غلنے کے
 لیے چیزیں خریدنا -
 سونٹھ کی ناس لینا - (ا- محاورہ) (۱) برداشت کرنا (۲) خاموشی اختیار کرنا -
 سونٹھ ہو رہنا - خاموش ہو رہنا - چپ ہو جانا -
 سونٹھنا - (ہ-ا-مٹ) ایک پردے کی چلیاں جو داغ بادی ہوتی ہیں (پ) سونا بننا -
 سونڈھا - (سون) (دھا) (ہ-میں) (۱) تازہ ہوتی یا مٹی کے کورس برتن کی
 خوش بو والا - بٹھے ہوئے چیزوں یا اکوڑوں کی خوشبو والا (۲) خوش بو دار -
 سونڈھاپن - (ہ-ا-میں) سونڈھی سونڈھی خوش بو -
 سونڈھنا - (سونڈھ) (نا) (ہ-میں) (۱) لٹانا - گدگد کرنا (۲) سناٹا - ٹھنڈا (۳)
 گونڈھنا (۴) کپڑوں کو دھونے کے لیے لٹانا -
 سونڈ - (ہ-ا-مٹ) ہاتھ کی لمبی ناگ -
 سونڈی - (سون) (ڈی) (ہ-ا-مٹ) (۱) ایک چھوٹا کیرا جو راج میں لگ

جاتا ہے (۲) ناف (۳) صلق کا گوا (۴) کلال - شراب کشید
 کرنے والا -
 سونسا - (وق - میں) صبر کرنا -
 سونف - (ا-مٹ) بادیان - ایک مشہور پودے کے بیج جو خوشبودار
 اور ٹھنڈے ہوتے ہیں -
 سونگھا - (سون) (گھا) (ہ-ا-مٹ) (۱) مذ (۲) وہ شخص جو قوت شام کے ذریعے
 زمین کے اندر کا حال، خزانہ یا بیٹھا پانی وغیرہ معلوم کر لیتا ہے (۲)
 شکاری گنا (۳) بجز - جاسوس - بھیدی - کھوجی -
 سونگھنا - (ا-میں) بولینا - ہلک لینا - باس لینا -
 سونگھنی - (سونگھ) (نی) (ہ-ا-مٹ) (۱) بلاس - (۲) بلاس کی ڈبیا -
 سونی - (سون) (نی) (ہ-میں) (۱) صفت (۲) دیران - غیر آباد - سنسان -
 سونے - (سو-نے) (ہ-ا-مٹ) (۱) مذ سونا (مٹا) کی وہ صورت جس میں الف
 کو بائیں بھول سے بدل دیتے ہیں -
 سونے پر سہاگا - (ا- محاورہ) رونق پر رونق - بہتری پر بہتری - نفع پر نفع - خوبی پر
 سونے سے گھر اڈن مہنگی - (ا-مٹ) اتنے کا مال نہیں جتنا اوپر لگ گیا -
 سونے کا مانی - (ا- مذ) (۱) سونے کا مٹی (۲) وہ پانی جس میں سونا گلا یا گیا ہو -
 سونے کا توڑا - (ا- مذ) طلائی زنجیر جو پاؤں میں پہنی جاتی ہے -
 سونے کا گڑوا پتیل کی پینڈی - (ا-ش) ان لوگوں کے متعلق کہتے ہیں -
 جن میں اچھ بڑوں کے ساتھ برائیاں بھی ہوں -
 سونے کا گھر مٹی ہو جانا - (ا- محاورہ) بنا بنا یا گھر تباہ ہو جانا -
 سونے کا نوالہ - (ا- مذ) ترمان - نہایت عمدہ خوراک -
 سونے کا نوالہ کھلائیے شیر کی نظر دیکھیے - (ا-ش) اولاد کے متعلق کہتے
 ہیں کہ بچوں کو بہتر سے بہتر خوراک دگر ان کی تربیت سختی سے کرنی چاہیے -
 سونے کا ورق - (ا- مذ) درق طلا - سونے کے ٹکڑے کو کوٹ کر بنایا ہوا درق -
 سونے کی چڑیا - (ا-مٹ) مال دار اسامی -
 سونے کی چڑیا ہاتھ آنا - (ا- محاورہ) کسی مال دار احمق کا قابو میں آ جانا -
 سونے کی کٹاری کوئی پیٹ میں نہیں مارتا - (مٹ) کسی فائدہ کی
 خاطر جان نہیں دی جاتا کرتی -
 سونے کے سہرے میاہ ہو - (ا- محاورہ) (۱) خدا دولت مند خاندان
 میں شادی کرانے -
 سونے کے محل اٹھانا - (ا- محاورہ) بہت دولت مند ہونا -
 سونے کے مول - (ا-میں) بہت گراں - نہایت قیمتی -
 سونے (بھونے) میں لدا پھندا رہنا - (ا-ش) سونے کا بہت
 سا زبرد پینے رہنا -
 سونیا - (ہ-ا-مٹ) (۱) مذ (۲) داکھ کو دھو کر سونا نکالنے والا نیار یا (۲) مال
 نکالنے والا - پیشین کر -
 سوویت - (Soviet) (سو-ویٹ) (روس) (ا-مٹ) (۱)
 روس میں وہ کونسل جسے کسی چھوٹے مٹے کے مزدور اور سپاہی منتخب
 کرتے ہیں (۲) صوبے کی کونسل جسے یہ کونسلیں منتخب کرتی ہیں (۳)
 روسی پارلیمنٹ -

سو میسر۔ (س۔ ویم۔ بر) (ہ۔ ا۔ مذ) قدیم ہندوؤں کی ایک رسم جس میں لڑکی اپنا خاندان خود انتخاب کرتی تھی۔
سو میسر چینا۔ (ا۔ محاورہ) خاندان کے انتخاب کی مجلس جمع ہونا۔
سو میسر ابرا۔ (س۔ ویمب۔ را) (ہ۔ ا۔ مذ) اپنا خاندان آپہننے والی لڑکی۔

سو ویٹ یونین۔ دفاتی ریاست جس میں روس اور دوسری سولہ خود مختار ریاستیں شامل ہیں۔

سولہ۔ (س۔ و۔ صفت) (ا۔ لال۔ سترخ) (۲) بھروسہ راگ کی ایک قسم۔
سولان۔ (س۔ و۔ لال) (ن۔ ا۔ مذ) ریختی، لکڑی یا لولہ صاف کرنے کا خار دار اوزار۔

سولان روج۔ (ن۔ ع۔ صفت) جان کو پھیلنے والا۔ جان کو تکلیف دینے والا۔ ناگوار خاطر۔

سولہ۔ (س۔ و۔ لال) (ہ۔ ا۔ مذ) قرین کا لیت۔

سوہن۔ (سوہن) (ن۔ ا۔ مذ) (۲) ایک قسم کی مٹھائی جیسے حلوا سوہن۔

سوہنا۔ (سوہنا) (ہ۔ صفت) (۱) خوب صورت۔ خوش نما (۲) مستحق۔ دلیر (۳) خاندان۔

سوہنی۔ (سوہنی) (ہ۔ صفت) خوبصورت۔ خوش نما۔ دل فریب (۱)
سوہنا کی تائینٹ (۱) مٹھائی (پاکستان) کی ایک کھارن جو مینڈال کی مجبور تھی (۲) جھاڑو۔ جادوب۔ بہاری۔

سُو۔ (س۔ و۔ لال) (ن۔ ا۔ مذ) (۱) بُرائی۔ خرابی۔ بدی (۲) بیماری (۳) (صفت) بُرا۔ خراب۔ بد۔

سُو اتفاق۔ (س۔ و۔ لال) (ن۔ ا۔ مذ) موافق کی خرابی۔ بُرا اتفاق۔

سُو ادب (ادب) ادبی۔ (س۔ و۔ لال) (ن۔ ا۔ مذ) بے ادبی۔ گستاخی۔

سُو ظن۔ (س۔ و۔ لال) (ن۔ ا۔ مذ) بدگمانی۔ بدظنی۔ بُرا خیال۔

سُو ہضمی۔ (س۔ و۔ لال) (ن۔ ا۔ مذ) بدہضمی۔ پیٹ کی خرابی۔

سُوئی۔ (سُوئی) (ہ۔ ا۔ مذ) (۱) سوزن۔ کپڑے سینے کا تھا باریک اوزار (۲) ترازد کا کاٹا (۳) گھڑی کا کاٹا جو حرکت کر کے وقت بتاتا رہتا ہے (۴) کاٹا۔ پھانس۔

سُوئی کا (بھال) پھاڑا جو جانا۔ (۱) محاورہ) بات کا تنگ بن جانا۔

سُوئی کے ناکے سے اونٹ نکالنا۔ (۱) محاورہ) ناممکن بات کر دکھانا۔

سُوئیوں اناج پروانا۔ (۱) محاورہ) کبوسے کرنا۔ بھل کرنا۔

سویا۔ (سویا) (ہ۔ ا۔ مذ) (۱) ایک خوشبودار ساگ کا نام (۲) (صفت) سویا ہوا۔ خوابیدہ۔

سویا اور چوکا۔ (۱) مثل) غافل ہوا اس نے غلط کھائی۔

سویا سوکھو یا جاگ سو پایا۔ (۱) مثل) غافل رہنے والا نقصان اٹھاتا ہے۔ ہوشیار رہنے والے کو نفع ہوتا ہے۔

سویاں۔ (سویاں) (ہ۔ ا۔ مذ) (۱) ایک قسم کی خوراک جو میدے آٹے یا روٹے کو گوندھ کر اس کے تار نکال کر بنائی جاتی ہے۔

سویپ۔ (Sweep) (رنگ) تاش کا ایک ٹیکل۔

سویٹر۔ (Sweater) (رنگ) موٹی اونٹنی بنیان۔

سُویدا۔ (سُویدا) (ہ۔ ا۔ مذ) وہ سیاہ نقطہ جو انسان کے قلب پر ہوتا ہے۔

سویر۔ (سویر) (ہ۔ صفت) جلدی۔ اول۔ پہلے۔ دیر کا فیض۔

سویرا۔ (سویرا) (ہ۔ ا۔ مذ) صبح دم۔ روز کا ٹوکا۔

سویتق۔ (سویتق) (ہ۔ ا۔ مذ) ستوتی۔

س۔ ہ

سیر۔ (ن۔ صفت) تین۔ ۳۔

سیر اساسی۔ (۱) (صفت) (اصطلاح علم کیمیا) لہجے سے فولاد تیار کرنے کا سیر بارہ عمل۔

سیر برنگہ۔ (ن۔ ا۔ مذ) ایک قسم کا پھول جس کی تین پتیاں ہوں۔ ٹوپیل پر بنائی ہوئی پتی۔

سیر بندی۔ (ن۔ ا۔ مذ) سیر ماہی قسط یا تنخواہ۔

سیر پیر۔ (ن۔ ا۔ مذ) تیسرے پیر کا وقت۔ دوپہر کے بعد کا وقت۔

سیر پہلو۔ (ن۔ ا۔ صفت) تین پہلوؤں کا (۲) ایک قسم کا تیر۔

سیر چند۔ ٹکنا۔ تین گٹ۔

سیر حرفی۔ (ن۔ ع۔ صفت) تین حرف کا۔ وہ کلمہ جس میں تین حرف ہوں۔

سیر حدہ۔ (ن۔ ع۔ ا۔ مذ) وہ مقام جہاں تین حدیں ملتی ہوں۔

سیر درہ۔ (ن۔ ا۔ مذ) تین دروازوں والا کمرہ۔

سیر سالہ۔ (ن۔ ا۔ مذ) تین سال کا۔

سیر کتر۔ تیسری دفعہ۔

سیر شنبہ۔ منگل کا دن۔

سیر ماہی۔ (ن۔ صفت) ہر تیسرے مہینے کا۔ جمادی۔

سیر منزلہ۔ (ن۔ ع۔ صفت) اوپر نیچے تین درجوں والا مکان۔

سہما۔ (س۔ و۔ لال) (ہ۔ ا۔ مذ) بناات اللش کا ایک چھوٹا سا ستارہ۔

سہمار۔ (س۔ و۔ لال) (ہ۔ ا۔ مذ) برداشت۔ تحمل۔

سہارا۔ (س۔ و۔ لال) (ہ۔ ا۔ مذ) (۱) مدد۔ بھروسا۔ وسیلہ (۲) اُمید۔

توق۔ (۳) توانائی۔ قوت (۴) ٹیک۔ اڈا ڈر۔

سہارا پانا۔ (۱) محاورہ) مدد پانا۔ تقویت حاصل کرنا۔

سہارا ٹکنا۔ (۱) محاورہ) آسرا ڈھونڈنا۔ مدد چاہنا۔

سہارا ٹوٹنا۔ (۱) محاورہ) آس ٹوٹنا۔

سہارا دینا۔ (۱) محاورہ) (۱) مدد کرنا۔ تقویت حاصل کرنا۔ یا اڈا ڈر ٹکنا۔

سہارا ڈھونڈنا۔ (۱) محاورہ) وسیلہ تلاش کرنا۔ آسرا ٹکنا۔

سہارا لینا۔ (۱) محاورہ) پناہ یا مدد لینا۔

سہارا جو جانا۔ (۱) محاورہ) تقویت مل جانا۔ مدد مل جانا۔

سہارا کرنا۔ (س۔ و۔ لال) (ہ۔ ا۔ مذ) برداشت کرنا۔ تحمل کرنا۔ گوارا کرنا۔

سہاگ۔ (س۔ و۔ لال) (ہ۔ ا۔ مذ) (۱) خاندان کی زندگی کا زمانہ (۲) خاندان کا پیار بخت۔ ناز و نیاز (۳) خوش نصیبی (۴) ایک قسم کا عطر (۵) ایک خاص گیت جو عورتیں شادی میں گاتی ہیں۔ وہ تمام چیزیں اور زیور جو سہاگ

ہونے کی حالت میں عورتیں پہنٹی اور استعمال کرتی ہیں (۶) ہم بستری کی پہلی رات۔

سہاگ آرتنا۔ (۱) محاورہ) رائیڈ ہونا۔

سہاگ پڑا۔ (۱) مذ) خوشبوؤں کا وہ کاغذی پڑا جو مساجد کے ہمراہ ڈھن کے گھر بھیجا جاتا ہے۔

سہاگ چھٹنا۔ (۱) محاورہ) بیوہ ہو جانا۔

سہاگ رات۔ (۱) مٹ) ہم بستری کی پہلی رات۔ شب زفاف۔

سہاگ سیج۔ (۱) مٹ) مجلس عروسی کا وہ پتنگ جس پر دو لہا دو لہن پہلی رات سوتے ہیں۔

سہاگ۔ (س۔ ۱۔ ۱) گا۔ (۱) مذ) ایک کھار جو سونا چاندی گلخانے اور دواؤں کے کام آتا ہے (۲) کھیت کی زمین ہموار کرنے کا پڑا۔

سہاگن۔ (س۔ ۱) لارگن۔ (۱) مٹ) وہ عورت جس کا خاوند زندہ ہو۔ زندہ شوہر والی۔

سہاگن کا پتھر پھینکا ڈھے کھیلتا ہے۔ (۱) مٹ) سہاگن کا پتھر مرجانے تو کچھ کی نہیں ہوتی اور نیچے ہو جائیں گے۔ کیونکہ شوہر زندہ ہے۔

سہمال۔ (س۔ ۱) بال۔ (۱) مذ) ایک قسم کی تلی ہوئی خستہ میٹھی روٹی۔

سہمالگ۔ (س۔ ۱) لگ۔ (۱) مذ) شادی کا دن (۲) ہندوؤں کا شادی کا زمانہ۔

سہمالی۔ (س۔ ۱) لی۔ (۱) مٹ) پوری پوری (۲) چپاتی۔

سہمام۔ (س۔ ۱) نام۔ (۱) مذ) (۱) چھٹے۔ (۲) تیربان۔ خدنگ۔ سہم کی جمع۔

سہمانا۔ (س۔ ۱) نا۔ (۱) مٹ) دل پسند۔ مرغوب۔ بھلا معلوم ہونے والا (۲) مناسب۔ معقول۔

سہماؤ۔ (س۔ ۱) پسند خاطر۔ خوشگوار۔

سہمائے۔ (س۔ ۱) اے۔ (۱) مذ) مدد۔ سہارا۔ حمایت۔ دوستی۔

سہمایتا۔ (۱) مٹ) مدد۔ سہارا۔ حمایت۔ اُفس۔ محبت۔

سہمناہستا۔ (س۔ ۱) تا۔ سہ۔ (۱) مٹ) لگنا۔ شیرگرم۔

سہج۔ (س۔ ۱) سبج۔ (۱) مذ) آہستہ۔ جولے سے (۲) آسان۔

سہج سہج۔ (۱) مٹ) آہستہ آہستہ۔ دھیرے۔ دھیرے۔

سہج کے سو میٹھا جو۔ (۱) مٹ) آہستہ اور اطمینان کا کام بہتر ہوتا ہے۔

سہرا۔ (س۔ ۱) را۔ (۱) مذ) پھولوں یا موتیوں کی لڑیاں جو ایک دوسرے میں بانڈھ کر دو لہا دو لہن کے سر پر سے چہرے پر لٹکانی جاتی ہیں (۲) وہ نظم جو ہزار بندھنے کی تقریب پر پڑھی جاتی ہے۔

سہرا بندھانی۔ (۱) مٹ) سہرا بانڈھنے کا ننگ جو ہینوٹیوں کو ہٹا ہے۔

سہرا پڑھانا۔ (۱) محاورہ) لوح مزار پر سہرا لٹکانا۔ تعزیوں کے علم یا فوج کے نشان پر سہرا لٹکانا۔

سہرا دیکھنا۔ (۱) محاورہ) بیاہ دیکھنا۔ بیاہ رچانا۔ شادی کرنا۔

سہرا صبر ہونا۔ (۱) محاورہ) کسی کام کی تکمیل کی ذمہ داری۔ کام کا دارو مدار ہونا۔

سہرے کے پھول کھلنا۔ (۱) محاورہ) بیاہ کا وقت آنا۔

سہرا نا۔ (س۔ ۱) را۔ (۱) مذ) (۱) مٹ) مقدس چیز کو دریا میں بہانا۔

سہروردی۔ (سہر۔ ۱) دی۔ (۱) مٹ) فقرا کا ایک گروہ جو حضرت شیخ شہاب الدین ساکن سہرورد (ایران) کی طرف منسوب ہے۔

سہری۔ (سہ۔ ۱) ری۔ (۱) مٹ) ایک قسم کی پھلی۔

سہسر۔ (سہ۔ ۱) سر۔ (۱) مٹ) (۱) ہزار (۲) کوئی بڑا عدد۔

سہل۔ (سہ۔ ۱) آسان۔ سہج۔ نرم۔

سہل الحصول۔ (سہ۔ ۱) آسانی سے حاصل ہونے والا۔

سہل انگار۔ (سہ۔ ۱) ف۔ (۱) مٹ) سکت۔ کابل۔ آسانی پسند۔

سہل انگاری۔ (سہ۔ ۱) ف۔ (۱) مٹ) آرام طلبی۔ کابل۔ تن آسانی۔

سہل سازی۔

سہل متعق۔ (سہ۔ ۱) کسی شعر یا کلام کا اتنا آسان ہونا کہ اس سے آسان کہنا ممکن نہ ہو۔

سہلانا۔ (سہ۔ ۱) لا۔ (۱) مذ) (۱) آہستہ آہستہ ہاتھ پھیرنا (۲) چکارنا۔

سہم۔ (سہ۔ ۱) مذ) خوف۔ ڈر۔ بیم۔

سہم جانا۔ (۱) محاورہ) ڈر جانا۔ خوف کھا جانا۔ دم بخوردہ جانا۔

سہم۔ (سہ۔ ۱) مذ) (۱) چلانے یا قرعہ ڈالنے والا تیر (۲) جھتہ۔ (۳) مکان کا شیرتیر (۴) دائرے کا ٹکڑا (۵) ایک ناپ۔

سہم معین۔ (سہ۔ ۱) مذ) مقررہ جھتہ۔

سہما جوا۔ (سہ۔ ۱) ما۔ (۱) مذ) (۱) مٹ) خوف زدہ۔ ڈرا ہوا۔ دم بخورد۔ چپ۔

سہمگین۔ (سہم۔ ۱) گین۔ (۱) مٹ) (۱) ڈراؤنا۔ خوفناک۔

سہمنا۔ (سہم۔ ۱) نا۔ (۱) مٹ) ڈرنا۔ خوف کھانا۔

سہمنا۔ (سہ۔ ۱) نا۔ (۱) مٹ) (۱) سیانا۔

سہمنا۔ (سہ۔ ۱) نا۔ (۱) مٹ) (۱) بھیلنا۔ برداشت کرنا۔ سہارنا۔

سہو۔ (سہ۔ ۱) مذ) بھول بھوک۔ غفلت۔ فردگراشت۔

سہو فک۔ (سہ۔ ۱) مذ) تحریری غلطی۔ غم سے کچھ کچھ نکل جانا۔

سہوا۔ (سہ۔ ۱) مذ) (۱) مٹ) غفلت سے غفلت میں۔ بلا ارادہ۔

سہولت۔ (سہ۔ ۱) سہ۔ (۱) مٹ) آسانی۔ آہستگی۔

سہی۔ (سہ۔ ۱) ہی۔ (۱) مٹ) (۱) ڈر (۲) ٹیک۔ (۳) بجا قول۔ منظور۔ مانا (۴) فرض کیا (۵) شرط کے لیے جیسے آتھ ہی (۶) نینت ہے (۷) تاکید کے واسطے (۸) سلسلہ قائم رکھنے کے لیے (۹) بے پروائی کا ہر کرنے کے لیے جیسے ہم دیوانے ہی ہی (۱۰) مٹ) صفا۔ درست عموماً مرد کے لیے استعمال ہوتا ہے۔

سہی۔ (سہ۔ ۱) مذ) سزا دار۔

سہیل۔ (سہ۔ ۱) ہیل۔ (۱) مذ) ایک ستارہ۔

سہیلی۔ (سہ۔ ۱) ہی۔ (۱) مٹ) (۱) مٹ) ساقھن۔ سکتی۔ ساتھ رہنے والی۔

سہیلی۔ ہم بولی۔

سہیم۔ (سہ۔ ۱) تیم۔ (۱) مٹ) (۱) مٹ) دار۔ شریک۔

س۔ ی

سیام۔ (رس۔ یام) (دہ۔ صف) (۱) کالا۔ سیاہ (۲) کالی کوئل (۳) ایک رنگی کا نام۔
 سیام برن۔ کالا رنگ۔ سیاہ نام۔ کالا۔
 سیان۔ (رس۔ یان) (دہ۔ ا۔ مذ) (۱) دانائی۔ ہوشیاری۔
 سیان پرت۔ (دہ۔ ا۔ صف) (۱) دانائی (۲) ہوشیاری۔ فریب (۳) کنجوسی۔
 سیال۔ (رسی۔ یال) (دہ۔ ا۔ مذ) (۱) خاندن۔ شوہر (۲) محبوب۔ بال (۳) سائیں۔ مالک۔ آقا۔
 سیال بھیہ کو تو ال اب ڈر کا ہے کا۔ (۱) مثل، جس کا رشتہ دار یا واقف کار حاکم ہو اسے تانوں کا ڈر نہیں ہوتا۔
 سیانا۔ (رس۔ یا۔ نا) (دہ۔ صف) (۱) عقل مند۔ دانا۔ عالم (۲) ہوشیار۔ ہوشیار۔ چالاک (۳) تعویذ گنڈا کرنے والا۔ عامل۔
 سیانا کو آگو گھاتا ہے۔ (۱) مثل، ضرورت سے زیادہ ہوشیار آدمی دھوکا کھاتا ہے۔
 ساوشان۔ (ف۔ ا۔ مذ) (۱) ایک پودا جو ادویات میں استعمال ہوتا ہے۔
 سیاہ۔ (رس۔ یا۔ ہ) (ف۔ صف) (۱) کالا (۲) شوم۔ بخش۔ منحوس۔
 سیاہ باطن سیاہ دل۔ (ف۔ صف) (۱) ریاکار۔ مکار۔ منافق۔ بد باطن۔
 سیاہ بخت۔ (ف۔ ا۔ صف) بد نصیب۔ تقدیر کا ہیٹھا۔ بد بخت۔
 سیاہ پوش ہونا۔ (۱) محاورہ، مانتی (کالے) کپڑے پہننا سوگ کرنا۔
 سیاہ خانہ۔ (ف۔ ا۔ صف) تاریک گھر۔ ویران مکان۔
 سیاہ روز۔ (۱) صف، مصیبت زدہ۔ مصیبت کا دن۔
 سیاہ رو۔ (۱) بد دعا، کالے گندے ڈیل ڈھار۔
 سیاہ روٹی۔ (ف۔ ا۔ صف) شرمندگی۔ وٹوٹائی۔
 سیاہ ڈببان۔ (ف۔ صف) وہ شخص جس کی بد دعا جلد اثر کر جائے۔ بد زبان۔
 سیاہ سفید کرنا۔ (۱) محاورہ، منہ رکھ کر ہونا۔ جو چاہتا سو کرنا۔
 سیاہ خام۔ (ف۔ ا۔ صف) کالا کھانا۔
 سیاہ کار۔ (ف۔ صف) (۱) بدکار۔ پانی۔ فاسق۔ فاجر (۲) گنہگار (۳) ظالم۔
 سیاہ کرنا۔ (۱) محاورہ، (۱) کالا کرنا (۲) کھنا۔ تھوڑا کرنا (ظن آ یا سزا دینا)۔
 سیاہ کر دیا سفید۔ (۱) بول چال، جو جی چاہے کر دے۔
 سیاہ گوش۔ (ف۔ ا۔ مذ) ایک چھوٹا درندہ جانور۔ بن بلاؤ۔
 سیاہ صمت۔ بد صمت۔ بد ہوش۔
 سیاہ مستی۔ بد ہوشی۔ بدستی۔ بے ہوشی۔
 سیاہنہ۔ (رس۔ یا۔ ہنہ) (ف۔ ا۔ مذ) کچا کھانا۔ روزانہ چکر جس میں نقدی یا اجناس تاریخ دار درج ہو۔
 سیاہنہ آمدنی۔ (۱) خزانے کا روزانہ حساب (۲) ہر روز کی آمدنی کا حساب۔
 سیاہنہ دکھانا۔ (۱) محاورہ، فوج کی تعداد دہا ہر کرنا۔ جائزہ دینا۔
 سیاہنہ کرنا۔ (۱) محاورہ، کچے کھاتے میں کھنا۔ روزانہ چمے میں درج کرنا۔
 سیاہنہ نویس۔ (ف۔ صف) کھاتے میں درج کرنے والا۔ روزانہ چمے میں اندراجات کرنے والا۔
 سیاہی۔ (رس۔ یا۔ ہی) (ف۔ ا۔ صف) (۱) کالا (۲) روشنائی جس سے

سی۔ (۱) مٹا۔ مٹا۔ پتنگی لینے یا کوئی چیز کاٹ لینے یا سرچ کی جہن محسوس ہونے پر مٹنے سے نکلنے والی آواز (۲) [دہ] سا کا مٹوٹا۔ جیسی (۳) سینا کا امر۔ کثرت اور افراط ظاہر کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ (سرمدی سرمدی)۔
 سی۔ (ف۔ صف) تیس۔ (۳۰)۔
 سی پارہ۔ قرآن شریف کو تیس حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ہر حصہ سی پارہ کہلاتا ہے۔
 سی۔ آئی۔ اے۔ (C.I.A.) (انگ۔ مذ) پولیس کا تفتیش برنامہ کا شعبہ۔
 سی۔ آئی۔ ڈی۔ (C.I.D.) (انگ۔ ا۔ مذ) محکمہ تحفظ پولیس۔
 سے۔ سیدہ۔ ساہی۔ (دہ۔ ا۔ صف) (۱) عاریت۔ ایک جانور جس کے جسم پر بڑے بڑے سیاہ دھبے لگتے ہوتے ہیں۔
 سے۔ (دہ۔ حرف جو) (۱) ابتدا یا شروع کے لیے جیسے گھر سے بازار تک جس سے شام تک (۲) "کی" کے معنی میں جیسے اُسے کھانے پینے سے کیا کمی ہے (۳) ٹیلنگ اور دوری ظاہر کرنے کے لیے جیسے ہم سے کیا جگ سے گیا (۴) مثل۔ مانند۔ جیسے تجھ سے ہزاروں۔
 سیات۔ (دہ۔ ا۔ مذ) سید کی حج۔ بڑیاں۔ بدیاں۔
 سیاح۔ (رسی۔ یاح) (دہ۔ صف) مکوں کی سیر کرنے والا۔
 سیاحت۔ (رس۔ یا۔ حت) (دہ۔ ا۔ صف) سفر۔ سیر۔
 سیاحی۔ (رسی۔ یا۔ حی) (دہ۔ ا۔ صف) سفر کرنا۔ سیر و سیاحت کرنا۔
 سیادت۔ (رس۔ یا۔ دت) (دہ۔ ا۔ صف) (۱) سرداری۔ بزرگی۔ امامت۔
 (۲) سلطنت۔ حکومت۔ بادشاہی (۳) قوم سادات۔
 سیار۔ سیال۔ (رس۔ یار) (رس۔ یال) (دہ۔ ا۔ مذ) گیار۔
 سیار۔ (رسی۔ یار) (دہ۔ صف) پھرنے والا۔ سیر کرنے والا۔
 سیارہ۔ (رسی۔ یا۔ رہ) (دہ۔ ا۔ صف) گردش کرنے والا ستارہ۔ جمع، ستارگان۔
 سیاست۔ (رس۔ یا۔ ست) (دہ۔ ا۔ صف) (۱) حکومت۔ سلطنت۔ ملکی انتظام (۲) رعب داب (۳) جھگی۔ گوش مالی۔ سزا۔
 سیاست مدن۔ (دہ۔ ا۔ صف) شہری انتظام۔
 سیاست کرنا۔ (۱) محاورہ، سزا دینا۔ تہدید کرنا۔ گوشالی کرنا۔
 سیاسی۔ (رس۔ یا۔ سی) (دہ۔ صف) (۱) ملکی انتظام کے متعلق (۲) سیاست سے تعلق رکھنے والا۔ جمع، سیاسیئن۔
 سیاسیات۔ (رس۔ یا۔ سیات) (دہ۔ ا۔ صف) (۱) علم سیاست (۲) سیاست سے تعلق رکھنے والی باتیں۔
 سیاق۔ (رس۔ یاق) (دہ۔ ا۔ صف) (۱) ربط معنوں (۲) حساب۔ گنتی حساب کے قاعدے (۳) دفتری اصطلاح (۴) سلسلہ احکام۔
 سیاق عبارت (کلام)۔ (دہ۔ ا۔ صف) ربط تحریر معنوں کا تسلسل۔
 سیال۔ (رسی۔ یال) (دہ۔ صف) (۱) چہنے والا۔ روان۔ رقیق۔ پتلا۔ مانع۔
 سیالا۔ (رس۔ یا۔ لا) (دہ۔ ا۔ صف) (۱) جانور۔ سوچ سمجھنا۔

کھا جاتا ہے (۳) تاریکی (۴) اندھیرا (۴) کاجل (۵) دھبہ - داغ - کلنگ کا ٹیٹھا۔
 سیاہی چٹ - سیاہی پوس - (۱) مذ) جاذب کاغذ - بلاٹنگ پیپر -
 سیاہی چڑھنا - (۱) محاورہ) تاریکی کا اُفق پر نمودار ہونا - اندھیرا بھانا۔
 سیاہی دھونا - (۱) محاورہ) عیب ڈور کرنا۔
 سیاہی رداں ہونا - (۱) محاورہ) روشنی کا ایسا رقیق ہونا کہ کھنے میں قلم نہ ڈکے۔
 سیاہی خالی نہ - (۱) صفت) نکتا - بے کار - آدمی۔
 سیلاب - (۱) مذ) ایک شہور شروع و سفید شیریں پھل۔
 سینب زنگذال - (۱) صفت) خوش نما - مجبونی اور خوب صورت ٹوٹی۔
 سیلاب - (۱) صفت) ایک قسم کی دریائی غلوت جس کے اندر سے موتی نکلتے ہیں۔ صدف (۲) پرندوں کی ایک بیماری (۳) ایک قسم کا پتیل گھل کا آتم - وہ آتم جو فصل میں سب سے پہلے پکتا ہے۔
 سیسی - (سی - پی) ڈار - (۱) صفت) سیب کا نول۔
 سیسی ام - بہت پتلی گھل کا آتم۔
 سیسی سامنہ نکل آنا - (۱) محاورہ) چہرے کا ڈھلا ہوا ہونا۔ چہرہ ست جانا۔
 سیست - (۵) صفت) ٹھنڈ - سردی (۲) پالا (۳) شہم۔
 سیستا - (سی - تا) (۱) صفت) پاکدامن - باصمیت عورت (۲) راجہ رام چندر کی بیوی کا نام۔
 سیستا پھل - (۱) مذ) ایک خوش ذائقہ پھل۔ شریظ - یہ پھل بن باس کے زمانے میں سیستا بنی۔ بڑے شوق سے کھی گھتیں۔
 سیستاسی - (۵) صفت) (۱) سیستا جیسی پاک دامن (۲) نیک بیوی۔
 سیستل - (سی - تل) (۱) صفت) (۱) ٹھنڈا - سرد (۲) سکت - ڈھیلا (۳) خوش - کھسی (۴) ایک قسم کی گھاس جس کے بوریے بناٹے جاتے ہیں۔
 سیستل پانی - (۵) صفت) (۱) صفت) وہ پانی جو سیستل گھاس سے بناٹی جاتی ہے۔
 سیستلا - (سیت - لا) (۵) صفت) (۱) چمپک - مانا۔
 سیستلا منہ داغ - (۵) صفت) وہ شخص جس کے چہرے پر چمپک کے نشان ہوں۔
 سیٹ - (Set) (انگ - ۱) مذ) (۱) ڈرائے وغیرہ کا منظر (منقش پردے اور دیگر لوازم) (۲) یکساں قسم کی چیزوں کا مجموعہ (۳) ٹینس وغیرہ کی ایک بازی (۴) صفت) قائم مستقل (اپنی جگہ) جما ہوا۔
 سیٹ کرنا - (ص - مرکب) اچھی طرح جما کر رکھنا۔ قائم کرنا۔ ٹیک بٹانا۔
 (اپنی جگہ) جما نا۔ تیار کر لینا۔
 سیٹ لگانا - (۱) محاورہ) (۱) ایسیج کو ڈرائے کے منظر کے مطابق پردوں اور دیگر لوازم سے آراستہ کرنا۔
 سیٹ (Seat) (انگ - ۱) صفت) (۱) نشست - سندا - تخت - کرسی۔
 چوکی - گدی (۲) کرسی - مہری (خصوصاً اسپرلی کی)۔
 سیٹلائٹ ٹاؤن - (Satellite Town) (انگ - ۱) صفت) وہ دور بستی جو کسی شہر کے ساتھ بسائی جاتی ہے۔
 سینگ - (Setting) (سے - بنگ) (انگ - ۱) صفت) (۱)

تماشا گاہ کے لوازم (۲) کھیل وغیرہ کی ترتیب و ترکیب۔
 سیٹھ - (۱) مذ) (۱) دولت مند - امیر (۲) ساہوکار - جہاں - بڑا ناچار (۳) ایک عزت کا خطاب جو بنوں - بقاوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔
 سیٹھ کیا جانے صابن کا بھاؤ - (۱) مثل) جس شخص کو کسی چیز سے تعلق نہ ہو۔ وہ اس کی قدر کیا جانے۔
 سیٹھا - (سی - ٹھا) (۵) صفت) بے مزہ - بے لذت - پھیکا۔
 سیٹھانی - (سے - ٹھانی) (۵) صفت) (۱) صفت) سیٹھ کی بیوی۔
 سیٹھی - (سی - ٹھی) (۵) صفت) (۱) ششکاری کے ساتھ منہ کی ہمیں آواز۔ (۲) پرندوں کی آواز (۳) جیسے کی آواز (۴) ایک چھوٹا آلہ جسے منہ سے بجاتے ہیں۔
 سیج - (۵) صفت) (۱) بستری بچھونا - بنگ - چارپائی (۲) تازہ پھولوں کی چادر۔
 سیج بند - پاول سے بنگ کی چادر یا نڈھنے کی ڈوری۔
 سیج بڑھتے ہی رانڈ - (۱) مثل) بیاہ کے بعد جلد بڑھ جانا۔
 سیج چڑھنا - (۱) محاورہ) (۱) میاں بیوی کا ساتھ سونا (۲) بنگ پر قدم رکھنا۔
 سیج (سیحان) سنوارنا - (۱) محاورہ) بستری بچھانا - سیج بچھانا - بچھونا آراستہ کرنا۔
 سیج کی کھی بھی بڑی - (۱) صفت) کسی ہی حقیر سی بھی بڑی ہے (۲) خلوت میں کسی کا دخل اچھا نہیں لگتا۔
 سیجنا - (سیجنا - مص) (۵) صفت) کھونا - کھونا (۲) پسینہ نکلنا - رونا (۳) گلہنا۔
 (۴) قرض اُترنا۔
 سیجنا - (سیجنا - نا) (سیجنا - نا) (۵) صفت) کھیتی یا باغ کو پانی دینا۔ آبپاشی۔
 سیج - (۱) صفت) (۱) صفت) (۱) لوسہ کی صلاح جس پر کباب بھونتے ہیں۔
 سیج پا ہونا - (۱) محاورہ) (۱) گھوڑے کا پچھلے پاؤں پر کھڑا ہونا (۲) بہت ناراض ہونا۔
 سیج پر لگانا - (۱) محاورہ) کباب سیج پر چڑھا کر بھوننا۔
 سیسچر - (سیس - چر) (۱) صفت) (۱) مذ) چھوٹی سیج۔
 سیسی کباب - (سی - یا - ک - باب) (۱) صفت) (۱) مذ) سیج کے کباب۔
 سید - (سی - یذ) (۱) مذ) (۱) امام - پیشوا - سردار (۲) رسول اللہ کی دختر حضرت فاطمہ کی اولاد - آل رسول۔
 سید الانبیاء - سید البشر - سید السادات - سید المرسلین - (۱) مذ) نبیوں کے سردار - تمام انسانوں کے سردار - سرداروں کے سردار - رسولوں کے سردار - القاب حضرت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم۔
 سید الشہداء - (۱) مذ) شہیدوں کے سردار - حضرت امیر حمزہ اور حضرت امام حسین کا خطاب۔
 سیدانی (سیدانی) - (سے - دا - نی) (۱) صفت) (۱) صفت) قوم سادات کی عورت سید کی بیوی۔
 سیدۃ النساء - (سی - ی - ذ - تن - بن - سا) (۱) صفت) عورتوں کی سردار۔
 حضرت فاطمہ کا لقب۔
 سیدھ - (۵) صفت) (۱) راستی - بڑھ کی ضد (۲) ٹیک سامنے کی طرف۔
 (۳) نشانہ - نشست۔
 سیدھ باندھنا - (۱) محاورہ) نشانہ باندھنا - نشست لگانا۔
 سیدھ میں - (۱) متعلق فعل) بالکل سامنے۔ ایک خط پر۔

سیر - (دع۔ ۱۔ مٹ) (۱) ہوا خوری۔ تفریح۔ پہل قدمی۔ گھومنا پھرنا (۲) تماشا
کیفیت۔ نظارہ (۳) لطف۔ مزہ (۴) میلہ ٹھیلا۔ نمائش۔ پینٹ (۵)
ہنسی۔ مذاق (۶) کتب بینی۔ ملاحظہ۔
سیر بین - (ف۔ صف) سیر دیکھنے والا۔ نظارہ دیکھنے والا۔
سیر دکھانا - (۱) محاورہ) سیر دکھلانا۔ تماشا دکھانا۔ مزہ دکھانا۔
سیر دیکھنا - (۱) محاورہ) تماشا دیکھنا۔ بہار دیکھنا۔ لطف حاصل کرنا۔
مزہ چکھنا۔
سیر سپاٹا - (۱) مذ) گھومنا پھرنا۔ ہوا خوری۔
سیر گاہ - (دع۔ ف۔ ۱۔ مٹ) تماشا گاہ۔ سیر دیکھنے کی جگہ۔ پرفضا مقام
نظارہ گاہ۔
سیر و شکار - (دع۔ ف۔ ۱) جابجا پھرنے کے دوران حیوانات کا شکار کرنا۔
سیر - (ف۔ صف) (۱) پیٹ بھرا۔ آسودہ (۲) بے پروا۔ مستغنی (۳)
بے زار۔ دل برداشتہ۔
سیر چشم - (ف۔ صف) (۱) تانچہ۔ صابر (۲) آسودہ حال (۳) سخی۔ داتا۔ قیاض۔
سیر حاصل - (ف۔ صف) (۱) زرخیز۔ شاداب۔ سرسبز (۲) اچھی پیداوار
کی زمین (۳) محض۔ تفصیلی۔
سیر ہونا - (۱) محاورہ) (۱) نینت بھرنا۔ پیٹ بھرنا (۲) بے زار ہونا۔
(۳) بے پروا ہونا۔
سیر - (دع۔ ۱۔ مذ) (۱) سولہ چھٹانک یا آستی تو لے کا وزن۔
سیر کو سوا سیر موجود ہے - (۱) مثل) ایک زبردست کے مقابلے پر اس
سے بھی زیادہ زبردست اور طاقتور موجود ہے۔ ہر فرعونے راہوئی۔
سیر کی ٹانڈی میں سوا سیر بڑا اور اٹل گیا۔ (۱) مثل) کم ظرف یا
کینڈے آدمی تھوڑی سی دولت یا معمولی سا اقتدار لٹے ہی آپے سے
باہر ہو گیا۔
سیر دل لہو بڑھنا - (۱) محاورہ) (۱) خوشی اور انبساط کے باعث جسم
میں بہت سا خون پیدا ہو جانا (۲) بڑی تقویت ہو جانا۔
سیر - (دع۔ ۱۔ مٹ) (۱) کاشت کاری (۲) اراضی جو زمیندار کے زیر کاشت
ہو (۳) شریک۔ جھتہ دار۔
سیر - (ف۔ ۱۔ مذ) ہنس۔
سیر - (س۔ یر۔ دع۔ ۱۔ مٹ) (۱) سیرت کی جمع۔ عادتیں۔ خصلیں (۲)
علم تاریخ۔
سیرا - (ف) سیر کرنے والا۔ پھرنے والا۔
سیرا - (س۔ یر۔ دع۔ ۱۔ مذ) (۱) پتلا حلوہ (۲) گل کا پتلا شیرا۔ جوتبا کو وغیرہ
میں ڈالا جاتا ہے۔ راب۔
سیراب - (سے۔ راب) (ف۔ صف) (۱) پانی سے بھرا ہوا۔ لب ریز۔
(۲) تروتازہ۔ سرسبز شاداب۔ زرخیز (۳) چھا ہوا۔ چھلکا ہوا۔
سیرابی - (ف۔ ۱۔ مٹ) نمی۔ تری۔ شادابی۔ تروتازگی۔
سیرت - (س۔ یرت) (دع۔ ۱۔ مٹ) (۱) عادت۔ خصلت (۲) گن۔ وصف۔ مہز۔
سیر واہ - (سیر۔ واہ) (دع۔ ۱۔ مذ) چار پائی کے سرانے اور بائتی کی کڑی۔
سیری - (سے۔ یر) (ف۔ ۱۔ مٹ) (۱) آسودگی۔ اطمینان۔ استغنا۔ بے پروائی

سیدھا - (س۔ یر۔ دھا) (دع۔ ۱۔ صف) (۱) راست۔ مستقیم۔ کھڑا۔ جمودی یا
عمودوار (۲) آسان۔ سہل (۳) سامنے (۴) درست۔ ٹھیک۔ باقاعدہ
(۵) حسب مرضی۔ موافق (۶) مساعد (۷) جھولا۔ سچا۔ کھرا۔ نیک یا نیکو
مسکین (۸) کچی خوراک۔ آٹا۔ دال گھی وغیرہ (۹) دایاں۔ داہنا (۱۰)
جس میں بل نہ ہو۔
سیدھا آٹا - (۱) محاورہ) (۱) براہ راست آٹا۔ سامنا کرنا۔ سامنے آنا۔
سیدھا بنانا - (۱) محاورہ) (۱) ٹھیک بنانا۔ مزادینا۔ درست کرنا (۲)
کچی دودھ کرنا۔ راست بنانا (۳) تربیت دینا۔ راہ پر لانا۔
سیدھا پن - (دع۔ صف) جھولاپن۔ سادگی۔
سیدھا تیرسا - (دع۔ صف) بالکل سیدھا۔
سیدھا جنت میں جانا - (۱) محاورہ) یقیناً مغفرت ہونا۔
سیدھا جواب - (۱۔ مذ) (۱) وہ جواب جو پیچیدہ الفاظ میں نہ ہو۔ صاف انکار۔
سیدھا جواب دینا - (۱) محاورہ) (۱) ایسا جواب دینا جس میں پیچیدگی نہ
ہو (۲) صاف انکار کر دینا۔
سیدھا رہنا - (۱) محاورہ) (۱) سرفاق رہنا۔ ہریان رہنا (۲) ٹھیک سے رہنا۔
سیدھا (سادہ) سادھا - (۱) صف) (۱) سادہ وضع۔ سادہ مزاج
(۲) جھولا بھالا۔
سیدھا کرنا - (۱) محاورہ) (۱) کچی دودھ کرنا۔ ہموار کرنا (۲) راہ راست پر لانا۔
(۳) بار پیٹ کر ٹھیک بنانا۔ گوشالی کرنا۔
سیدھا کھرا راستہ لینا - (۱) محاورہ) فوراً چلے جانا۔
سیدھا لاکھ - (۱۔ مذ) داہنا لاکھ۔
سیدھی - (س۔ یر۔ دھی) (دع۔ صف) سیدھا کی تائیت۔ راست۔ ٹھیک۔
سیدھی آنکھ - (۱) مٹ) (۱) دایں آنکھ (۲) عنایت کی نظر۔
سیدھی آنکھ نہ بھانا - (۱) محاورہ) نہایت ناپسند ہونا۔
سیدھی انگلیوں کھی نہیں نکلتا - (۱) مثل) ملائمت اور نرمی سے ہر
کام نہیں بنتا۔
سیدھی چال چلنا - (۱) محاورہ) سیدھی راہ چلنا۔ سلامت روی اختیار کرنا۔
سیدھی راہ سے پھرنا - (۱) محاورہ) گمراہ ہونا۔
سیدھی (سیدھیان) سنانا - (۱) محاورہ) (۱) صاف صاف کہنا۔ بے لاگ
کہنا (۲) بے دھڑک گالیاں دینا۔ بے نقط سنانا۔
سیدھی سی بات - (۱) مٹ) معمولی سی بات۔ وہ بات جس میں
کوئی بیج نہ ہو۔
سیدھی گالی - (۱) مٹ) صاف گالی۔
سیدھی نظر رکھنا - (۱) محاورہ) ہر پائی کی نظر رکھنا۔ کرم کا برتاؤ رکھنا۔
سیدھے دن آنا - (۱) محاورہ) اچھے دن آنا۔ اقبال نادر ہونا۔
سیدھے سبھاؤ - (۱) متعلق فعل) صاف دلی سے۔ سادگی سے۔ ایماندار سے۔
سیدھے منہ بات نہ کرنا - (۱) محاورہ) بے رنجی سے بات کرنا۔ اللغات
نکرنا۔ قہر نہ کرنا۔
سیدھے منہ سے چھوٹو - (۱) محاورہ) اچھی طرح بلولہ کھل کر بات کر دو۔
سیدی - (ف۔ ۱۔ مذ) میشی۔

پیٹ بھرا ہونا (۲) اصطلاح علم کیمیا کسی چیز میں اتنی نمی ہو کہ او زیادہ نمی نہ جذب کر سکے - (Saturation)
 ریٹھرہ - (۱۰-۱-۱۱-۱۲) مث (۱) نمی۔ میل (۲) وہ ندی ہنر یا نالہ جس سے آس پاس کے کھیتوں کو پانی دیا جاتا ہو۔
 ریٹھرھی - (سی - ژھی) (۱۰-۱-۱۱-۱۲) مث (۱) زمین۔ زردبان - پیڑھی (۲) دیلہ۔
 ذریعہ (۳) درجہ - مرتبہ - مرحلہ - ڈگری - گریڈ۔
 ریٹھرھی پیڑھی پڑھنا - (۱-۱۱-۱۲) درجہ بدرجہ ترقی کرنا۔
 ریٹھرہ - (۱۱-۱۲) (۱۰-۱-۱۱-۱۲) مث (۱) تیرہ - ۱۳۔
 ریٹھرہم - (۱۰-۱۱-۱۲) مث (۱) تیرھواں۔
 ریزن - (Season) (سی - زن) (۱۰-۱۱-۱۲) مث (۱) زمیں جو ہم خاص زمانہ ریزن ٹکٹ - (Season Ticket) (انگ - ۱-۱۰) مث (۱) وہ ٹکٹ جو کسی تقریب یا کھیل تماشے کی پوری مدت کے لیے ہو۔
 ریزس - (۱۰-۱۱-۱۲) مث (۱) سرکھوپڑی (۲) ماتھا - پیشانی۔
 ریزس پھول - (۱۰-۱-۱۱) مث (۱) ایک زیور جو عورتیں سر پر باندھتی ہیں (۲) خاندان مشہور ہستی۔
 ریزس ناگ - (۱۰-۱۱-۱۲) مث (۱) بڑاناگ - سانپوں کا بادشاہ۔
 ریزس - (سی - سہ) (۱۰-۱-۱۱-۱۲) مث (۱) کمان کا چلہ۔
 ریزس - سیسا - (سی - سہ) (سی - سا) (۱۰-۱-۱۱-۱۲) مث (۱) دھات جس سے بندوق کی گولیاں اور پھرتے وغیرہ بنائے جاتے ہیں۔
 سیشن - (Session) (سے - شن) (انگ - ۱-۱۰) مث (۱) اجلاس جلسہ بینک (۲) عدالت فوجداری کا اجلاس (۳) پارلیمنٹ کی برعاشقی اور اس کے اجلاس کا درمیانی زمانہ۔
 سیف - (۱۰-۱-۱۱-۱۲) مث (۱) تلوار بشیر۔ تیغ۔
 سیف توپ پڑھی مگر تیغ کا ٹکڑا - (۱۰-۱۱) مث (۱) جس سے کام کرنے کی توقع تھی اس نے کچھ نہ کیا البتہ ایک ادنیٰ شخص نے کام کر دیا۔
 سیف زبان - (۱۰-۱-۱۱-۱۲) مث (۱) تیز زبان - وہ شخص جس کی دغا گتہر قبول ہوتی ہو۔ وہ شخص جس کے کلام میں تاثیر ہو (۲) اعلیٰ درجے کا شاعر اور سخندان (۳) مٹہ بھٹ - دریدہ دہن۔
 سیف - (Safe) (انگ - ۱-۱۰) مث (۱) جوری (۲) نعمت خانہ (۳) (صفت) محفوظ - مامون - مصئون۔
 سیفی - (Safety) (سیف - ٹی) (انگ - ۱-۱۰) مث (۱) حفاظت - سلامتی (۲) امن وامان۔
 سیفی ایکٹ - (Safety Act) (انگ - ۱-۱۰) مث (۱) قانون تحفظ عامہ اجتماعی نظربندی کا قانون۔
 سیفی پن - (Safety Pin) (انگ - ۱-۱۰) مث (۱) محفوظ پن - آہین۔
 سیفی ریزر - (Safety Razor) (انگ - ۱-۱۰) مث (۱) محفوظ آسترا۔
 سیفی لمپ (Safety Lamp) (انگ - ۱-۱۰) مث (۱) ایک خاص لمپ جو کانوں میں استعمال ہوتا ہے اس لمپ کے گولے کی کانوں میں گیس میں آگ نہیں لگ سکتی۔
 سیفی میچ - (Safety Match) (انگ - ۱-۱۰) مث (۱) محفوظ دیاسلائی۔ جو ایک خاص سالے سے بنتی ہے۔

سیفی والو - (Safety Valve) (انگ - ۱-۱۰) مث (۱) ایک آلہ جو انجنوں یا دوسری بھاپ سے پلنے والی مشینوں میں لگا ہوتا ہے کہ اگر بھاپ زیادہ ہو جائے تو اس کے ذریعے نالہ بھاپ نکل جائے اور انجن یا مشین بھاپ کے دباؤ سے پھٹنے سے محفوظ رہے۔
 سیفی - (سے - ٹی) (۱۰-۱-۱۱-۱۲) مث (۱) وہ اسم جلائی جو کسی دشمن کی ہلاکت کے لیے پڑھا جاتا ہے (۲) ایک جلائی دغا (۳) ڈاکو (۴) بددعا - نفرین (۴) (صفت) تلوار سے مشابہ - شمشیر نما۔
 سیک - (۱۰-۱-۱۱-۱۲) مث (۱) نصیحت۔
 سیک (سیک) - (۱۰-۱-۱۱-۱۲) مث (۱) تیش - پیٹ - حدت (۲) کسی گرم چیز کی گھور کرنا - گرمی پہنچانا۔
 سیکرٹری - (Secretary) (ایک - ریٹ) (سی - انگ - ۱-۱۰) مث (۱) مستند سکرٹری - سرکاری یا کسی جماعت وغیرہ کا اہم دار جو اس کی طرف سے کاروبار انجام دیتا ہے۔
 سیکرٹریٹ - (Secretariate) (ایک - ریٹ) (سی - اٹ) (انگ - ۱-۱۰) مث (۱) دفتر مستند - سیکرٹری کا دفتر (۲) کسی صوبے کے عاملانہ کے کاروبار انجام دیتا ہے۔
 سیکڑا - (سیکڑا) (ایک - ٹرا) (سیک - ٹرا) (۱۰-۱-۱۱-۱۲) سو - ۱۰۰ (۲) فی صد۔
 سیکڑوں ٹاننا - (۱۰-۱۱-۱۲) مث (۱) بڑا جھلکنا - گالیوں دینا۔
 سیکڑوں گھڑے پانی پڑ جانا - (۱۰-۱۱-۱۲) مث (۱) سخت ناماد اور شرمندہ ہونا۔
 سیکس - (Sex) (انگ - ۱-۱۰) مث (۱) جنس مذکر یا مؤنث ہونا۔
 سیکس اپیل - (Sex appeal) (انگ - ۱-۱۰) مث (۱) جنسی کشش - وہ خواہش جس کا تعلق جنسی جذبے سے ہے۔
 سیکشن - (Section) (ایک - شن) (انگ - ۱-۱۰) مث (۱) حصہ - قطعہ - ٹکڑا - شعبہ (۲) (فوجی) دستہ - پڑا۔
 سیکنڈ - (Second) (سے - کنڈ) (انگ - ۱-۱۰) مث (۱) ایک منٹ کا ساٹھواں حصہ - ثانیہ (۲) (صفت) دوسرا - دوئم - دوسرے نمبر یا درجہ پر۔
 سیکورٹی - (Security) (سے - کو - ریٹی) (انگ - ۱-۱۰) مث (۱) حفاظت - سلامتی - پکاؤ (۲) ضمانت - کفالت (۳) ضمان - کفیل - (۴) دشمن - ہمنڈی۔
 سیکورٹی ایکٹ - (Security Act) (انگ - ۱-۱۰) مث (۱) قانون تحفظ مملکت - اجتماعی نظربندی کا مرکزی قانون۔
 سیکھ - (۱۰-۱-۱۱-۱۲) مث (۱) صلاح - مشورہ (۲) پند - نصیحت - سیکھنا کا امر۔
 سیکھ واکو دیکھ جا کو سیکھ سہائے - سیکھ نہ دیکھے باندر آ جو بیٹھے کا گھر جائے - (۱۰-۱۱) مث (۱) نصیحت اسی کو دینی چاہیے جو اس کو ٹھیک طرح سمجھ سکے۔
 سیکھنا - (سیکھنا) (۱۰-۱۱) صفت (تعلیم پانا - تربیت حاصل کرنا (۲) دوسرے کی عادت یا روش اختیار کرنا (۳) تجربہ حاصل کرنا - عبرت پکڑنا۔
 سیل - (۱۰-۱-۱۱-۱۲) مث (۱) پانی کی رُو - بہاؤ - طغیان - لہر۔
 سیل میٹر - (Flood Meter) (انگ - ۱-۱۰) مث (۱) پانی کے بہاؤ کو ناپنے کا آلہ۔
 سیل - (Sale) (انگ - ۱-۱۰) مث (۱) بکری - فروخت۔

سیلز مین (Salesman) (انگ - ۱- مذ) بیچنے والا۔ دکان کے ملازم جو گاؤں کے ہاتھ چیزیں بیچیں۔

سیل (Seal) (انگ - ۱- مٹ) (۱) ہر چھاپ۔ چھٹا (۲) ایک قسم کی پھیل۔ سبگ ماہی۔ دریائی کچھڑا۔

سیل کرنا۔ (۱) عمارت (۲) ٹہر لگانا۔

سیل۔ (۱- مذ) (۱) چھوٹا میز (۲) تیر (۳) ایک قسم کی پھیل۔

سیل۔ (۱- مٹ) (۱) تری۔ نمی۔ رطوبت (۲) شرم۔ حیا (۳) ٹھنڈی سردی (۴) عادت۔ خصلت۔ سیرت۔

سیلا۔ (سی - لا) (۱- صف) (۱) نم دار بھیجکا ہوا۔ ترگیلا۔

سیلا۔ (سی - لا) (۱- مذ) (۱) سر پر باندھنے کا ریشمی سماریا لنگی (۲) ایک قسم کا چاول (۳) شیر بہر (۴) اُٹھے ہوئے چاول۔

سیلاب۔ (سی - لاب) (۱- مذ) پانی کی رو۔ طغیانی۔ پانی کا پڑھاؤ۔

سیلاب چی۔ (۱- مٹ) (۱- مٹ)۔ گن۔ شست۔ ہاتھ منڈ دھونے کا برتن۔

سیلان۔ (سی - لان) (۱- مذ) کسی پتلی چیز یا پانی کا جاری ہونا۔

سیلان الرحم۔ ایک بیماری جس میں عورت کے دم سے رطوبت بہتی رہتی ہے۔ ٹیکوریا۔

سیلانی۔ (سی - لا - نی) (۱- مذ) سیریں کرنے والا۔ زیادہ گھومنے پھرنے والا۔

سیلانی چوڑا۔ (۱- مذ) ایسا شخص جو سرد تاشا کا شوٹین ہو۔ من موی۔ لہری۔

سیلانی فقیر۔ (۱- مذ) رہتا ہوگی۔ جہاں گرد درویش۔

سیلف گورنمنٹ۔ (انگ - ۱- مذ) حکومت خود اختیاری۔

سیل کھڑی۔ (سیل - کھ - ڈی) (۱- مٹ) ایک قسم کا پتھر جسے پیس کر زخموں پر پھرتے ہیں۔ سبگ براجت۔

سیلین۔ (۱- مٹ) (۱- تری - نمی)۔

سیلینا۔ (سیل - نا) (۱- مص) گھیلنا ہونا۔ نم ہونا۔ تر ہونا۔

سیلون۔ (سیلون) (سی - لون) (انگ - ۱- مذ) (۱) جوٹلوں یا قوہ خانوں کا بڑا کمرہ (۲) جہاز کا سب سے بڑا کمرہ (ریل یا ہوائی جہاز میں) مسافروں کا کمرہ (امریکہ میں) شراب خانہ (یورپ میں) میلوں میں (۱) کمرہ ملاقات۔ پیٹھک۔ دیوان خانہ۔

سیلون کار۔ (انگ - مٹ) ایسی ریل گاڑی جس کی بناوٹ ایک سین کرے جیسی ہو۔

سیلوٹ۔ (Salyut) (انگ - مذ) روسی خلائی تجربہ گاہ۔ روسی خلائی شیشن جو ۲۴ ستمبر ۱۹۷۷ء کو خلا میں بھیجا گیا تھا۔ اس کا وزن ۹۴۰ پونڈ ہے۔

سیلی۔ (سی - لی) (۱- مٹ) (۱) جالی۔ جال (۲) پیٹ اور سینے پر بالوں کی سیدھی کبیر (۳) سیاہ بالوں کی ڈوری یا تانتے خواہ ریشم کی وہ لڑی جو ہندو نظیر گنگے میں ڈالے رہتے ہیں۔

سیلی۔ (سی - لی) (۱- مٹ) (۱) پھڑ۔ چانٹا (۲) دھب۔

سیم۔ (۱- مٹ) (۱) ایک قسم کی ترکاری (۲) زمین کی کھار۔ جو زمین کے اندر پانی کی سطح بلند ہو جانے سے پیدا ہوجاتی ہے۔

سیم زدہ۔ وہ زمین جسے کھار ناقابل کاشت بنا دے۔

سیم۔ (۱- مٹ) (۱) چاندی (۲) نقرہ (۲) دولت۔ روپیہ۔

سیم سن۔ (۱) چاندی (۲) سید جلد والا۔ گورا پچا (۲) حسین خوبصورت (۳) مشوق

سیما۔ (سی - ما) (۱- مذ) (۱) ماٹھا۔ پیشانی (۲) چہرہ۔ منہ۔

سیما۔ (سی - ما) (۱- مذ) پارہ۔

سیماب۔ (سی - ما - بی) (۱- مٹ) (۱) صاف (۲) سیما سے منسوب۔

سیمابی باد پیمیا۔ (Mercurial Barometer) پارے دار

مقیاس الہوا۔

سیمپل۔ (Sample) (انگ - ۱- مذ) نمونہ۔

سیم سٹرن۔ (سی - سٹرن) (۱- مذ) ایک بڑا خیالی پرند جس کا وطن کوہ قاف بتایا جاتا ہے اور جس کا ذکر پڑانے افسانوں میں آتا ہے۔

سیمل۔ (سی - سل) (۱- مٹ) (۱) ایک بڑا خار دار درخت جس سے ایک قسم کی روٹی نکلتی ہے۔

سیمینٹ۔ (Cement) (سی - مینٹ) (انگ - ۱- مذ) ایک ٹھری رنگ کا سالہ جس سے اینٹوں اور پتھروں کو جوڑتے ہیں۔

سیمیا۔ (سیم - یا) (۱- مٹ) (۱) علم علم جس کے ذریعے روح کو ایک جسم سے دوسرے جسم میں منتقل کر سکتے ہیں اور ایسی اشیاء جن کا حقیقت میں کوئی وجود نہ ہو لوگوں کو دکھاسکتے ہیں۔ (۲) جادو۔

سیمی فائنل۔ (Semi-Final) (سی - بی - فا - نل) (انگ - ۱- مذ) وہ کھیل جو آخری کھیل سے پہلے کھیلا جاتا ہے۔

سیمیں۔ (سی - مین) (۱- مٹ) (۱) چاندی کا۔ نقری۔

سیمین۔ (۱- مٹ) (۱) آٹھ مارنا۔ رمز۔ علامت۔ نشان۔

سیمین۔ (Scene) (انگ - ۱- مذ) (۱) منظر۔ نظارہ (۲) ڈرامے کا ایک منظر یا جگہ۔ تھیلڈ کا پردا۔

سینا۔ (سی - نا) (۱- مٹ) (۱) فوج۔ لشکر۔ سپاہ۔

سینا پتی۔ (۱- مذ) فوج کا کمانڈر۔ سپہ سالار۔

سینا۔ (سی - نا) (۱- مٹ) (۱) مسافروں کو گری یا سینک پہنچانا۔ پرند کا بچے نکالنے کے لیے انڈوں پر بیٹھنا۔

سینا۔ (سی - نا) (۱- مٹ) (۱) ایک شام کا پہاڑ طوری سینا جس پر حضرت موسیٰؑ کو تجلی رباتی اور شرف ہم کلامی حاصل ہوا تھا۔

سینا۔ (سی - نا) (۱- مٹ) (۱) مانگے لگانا۔ بیخیز کرنا۔

سینت۔ (سی - مٹ) (۱) منعت۔ بلا قیمت۔ بن داموں (۲) ناتخت۔

سینت رکھنا۔ (۱- مٹ) (۱) مخالفت سے رکھنا (۲) ملتوی رکھنا۔

سینتالیس۔ (سین - تالیس) (۱- مٹ) (۱) چالیس اور سات۔ ۴۴۔

سینتانا۔ (سینت - نا) (۱- مٹ) (۱) مخالفت سے رکھنا (۲) جمع کرنا۔ جوڑنا۔

سینتوی رکھنا (۱- مٹ) (۱) اصلاح کرنا (۲) پاخانہ صاف کرنا۔

سینتیس۔ (سین - تیس) (۱- مٹ) (۱) تیس اور سات۔ ۳۷۔

سینٹ۔ (Scent) (انگ - ۱- مذ) (۱) مہک۔ خوشبو۔ بظ۔

سینٹ۔ (Saint) (انگ - ۱- مذ) (۱) سنت۔ ولی۔ رشی۔ بزرگ۔ درویش۔

سینٹر۔ (Centre) (سی - سنٹر) (انگ - ۱- مذ) (۱) مرکز۔ دائرے کا وسطی نقطہ۔

سینٹری۔ (Sanitary) (سی - سنٹر - ٹی) (۱- مٹ) (۱) (انگ - صف) (۱)

سیلز مین (Salesman) (انگ - ۱- مذ) بیچنے والا۔ دکان کے ملازم جو گاؤں کے ہاتھ چیزیں بیچیں۔

سیل (Seal) (انگ - ۱- مٹ) (۱) ہر چھاپ۔ چھٹا (۲) ایک قسم کی پھیل۔ سبگ ماہی۔ دریائی کچھڑا۔

سیل کرنا۔ (۱) عمارت (۲) ٹہر لگانا۔

سیل۔ (۱- مذ) (۱) چھوٹا میز (۲) تیر (۳) ایک قسم کی پھیل۔

سیل۔ (۱- مٹ) (۱) تری۔ نمی۔ رطوبت (۲) شرم۔ حیا (۳) ٹھنڈی سردی (۴) عادت۔ خصلت۔ سیرت۔

سیلا۔ (سی - لا) (۱- صف) (۱) نم دار بھیجکا ہوا۔ ترگیلا۔

سیلا۔ (سی - لا) (۱- مذ) (۱) سر پر باندھنے کا ریشمی سماریا لنگی (۲) ایک قسم کا چاول (۳) شیر بہر (۴) اُٹھے ہوئے چاول۔

سیلاب۔ (سی - لاب) (۱- مذ) پانی کی رو۔ طغیانی۔ پانی کا پڑھاؤ۔

سیلاب چی۔ (۱- مٹ) (۱- مٹ)۔ گن۔ شست۔ ہاتھ منڈ دھونے کا برتن۔

سیلان۔ (سی - لان) (۱- مذ) کسی پتلی چیز یا پانی کا جاری ہونا۔

سیلان الرحم۔ ایک بیماری جس میں عورت کے دم سے رطوبت بہتی رہتی ہے۔ ٹیکوریا۔

سیلانی۔ (سی - لا - نی) (۱- مذ) سیریں کرنے والا۔ زیادہ گھومنے پھرنے والا۔

سیلانی چوڑا۔ (۱- مذ) ایسا شخص جو سرد تاشا کا شوٹین ہو۔ من موی۔ لہری۔

سیلانی فقیر۔ (۱- مذ) رہتا ہوگی۔ جہاں گرد درویش۔

سیلف گورنمنٹ۔ (انگ - ۱- مذ) حکومت خود اختیاری۔

سیل کھڑی۔ (سیل - کھ - ڈی) (۱- مٹ) ایک قسم کا پتھر جسے پیس کر زخموں پر پھرتے ہیں۔ سبگ براجت۔

سیلین۔ (۱- مٹ) (۱- تری - نمی)۔

سیلینا۔ (سیل - نا) (۱- مص) گھیلنا ہونا۔ نم ہونا۔ تر ہونا۔

سیلون۔ (سیلون) (سی - لون) (انگ - ۱- مذ) (۱) جوٹلوں یا قوہ خانوں کا بڑا کمرہ (۲) جہاز کا سب سے بڑا کمرہ (ریل یا ہوائی جہاز میں) مسافروں کا کمرہ (امریکہ میں) شراب خانہ (یورپ میں) میلوں میں (۱) کمرہ ملاقات۔ پیٹھک۔ دیوان خانہ۔

سیلون کار۔ (انگ - مٹ) ایسی ریل گاڑی جس کی بناوٹ ایک سین کرے جیسی ہو۔

سیلوٹ۔ (Salyut) (انگ - مذ) روسی خلائی تجربہ گاہ۔ روسی خلائی شیشن جو ۲۴ ستمبر ۱۹۷۷ء کو خلا میں بھیجا گیا تھا۔ اس کا وزن ۹۴۰ پونڈ ہے۔

سیلی۔ (سی - لی) (۱- مٹ) (۱) جالی۔ جال (۲) پیٹ اور سینے پر بالوں کی سیدھی کبیر (۳) سیاہ بالوں کی ڈوری یا تانتے خواہ ریشم کی وہ لڑی جو ہندو نظیر گنگے میں ڈالے رہتے ہیں۔

سیلی۔ (سی - لی) (۱- مٹ) (۱) پھڑ۔ چانٹا (۲) دھب۔

سیم۔ (۱- مٹ) (۱) ایک قسم کی ترکاری (۲) زمین کی کھار۔ جو زمین کے اندر پانی کی سطح بلند ہو جانے سے پیدا ہوجاتی ہے۔

سیم زدہ۔ وہ زمین جسے کھار ناقابل کاشت بنا دے۔

دغیرہ دُور کرنے کے لیے بدن پر لگا کر مُنہ سے بدن کی گرمی جوستے ہیں۔
 (۲) ایک قسم کی پھیل۔
 سینکیاں لگانا۔ (۱) محاورہ) انسان کے جسم پر پچھنے لگا کر سینگی کے ذریعے خون پُوستا۔
 سینہ۔ (سی۔ نہ) (ن۔ ۱) مذ) چھاتی۔ صدر۔ سامنے کے رُخ پر گردن اور پیٹ کا درمیانی حصہ۔ جسم۔
 سینہ (اُبھار) تان کر چلنا۔ (۱) محاورہ) تن کر چلنا۔ عذر سے اُترا کر چلنا۔ اُترا کر چلنا۔
 سینہ افکار یا فکار۔ (ن۔ صف) (۱) زخمی سینے والا (۲) رنجیدہ۔
 کبیدہ۔ (۳) رکتا، عاشق۔
 سینہ بسینہ۔ (ن۔ متعلق فعل) وہ راز جو ایک خاندان میں بڑوں کی زبان یا چھوٹوں کو منتقل ہوتے رہیں (۲) مقابل میں۔
 سینہ بند۔ (ن۔ ۱) مذ) (۱) ایک پریش جیسے کو گرم رکھنے کے لیے پہننے ہیں (۲) انگیا (۳) گھوڑے کی پیٹی۔
 سینہ پھینا۔ (۱) محاورہ) بہت بڑا صدر مرگزنا۔ برداشت نہ کر سکا۔
 سینہ پینا۔ (۱) محاورہ) چھاتی کو ٹٹنا۔ ماتم کرنا۔
 سینہ ہلنا۔ (۱) محاورہ) دل پر صدر ہونا۔ غم ہونا۔
 سینہ جاک ہونا۔ (۱) محاورہ) صدر سے مارے چھاتی کا چھٹ جانا۔ بہت زیادہ غم کرنا۔
 سینہ زرن (کوب)۔ ماتم کرنے والا۔ چھاتی کو ٹٹنے والا۔
 سینہ زور۔ (ن۔ صف) سرکش۔ دھینگا۔ دھینگا کرنے والا۔ زبردست۔ طاقت ور۔
 سینہ زوری۔ (ن۔ ۱) مٹ) سر زوری۔ زبردستی کرنا۔ سرکشی۔
 سینہ سپر ہونا۔ (۱) محاورہ) خطر یا غم کے موقع پر ڈرنا رہنا۔ خطرناک حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا۔
 سینہ سوختہ (سوز)۔ (ن۔ صف) رنجیدہ۔ کبیدہ۔
 سینہ شق ہونا۔ (۱) محاورہ) سخت صدر پہننا۔
 سینہ صاف۔ (ن۔ صف) صاف دل۔ بے کینہ۔ بے کپٹ۔
 سینہ کاوی۔ (ن۔ ۱) مٹ) سخت کوشش۔ بہت زیادہ شقت۔
 سینہ کوبی۔ (ن۔ صف) چھاتی پینا۔ ماتم کرنا۔
 سینے پر پتھر (سِل) رکھنا۔ (۱) محاورہ) صبر کرنا۔ ضبط کرنا۔ برداشت کرنا۔
 سینے پر سانپ لوٹنا۔ (۱) محاورہ) سخت رنج ہونا۔ بہت صدر پہننا۔
 سینے میں آگ لگانا۔ (۱) محاورہ) سخت رنج و غم یا صدر ہونا۔
 سینے پر ماتھ دھرنا۔ (۱) محاورہ) دل کو تسلی دینا۔ اضطراب کو روکنا۔
 سینے سے لگانا۔ (۱) محاورہ) چھاتی سے پشاننا۔ پیار کرنا۔
 سینے میں نیچے لگانا۔ (۱) محاورہ) اضطراب ہونا۔ بے چینی ہونا۔
 سینے میں سانس نہ سمانا۔ (۱) محاورہ) بڑی طرح لا پینا۔ دم اُٹھنا۔
 سینے کا اُبھار۔ (۱) مذ) عورتوں کی چھاتیوں کی نمود۔
 سینتی۔ (سی۔ نی) (ن۔ ۱) مٹ) دھات کا بنا ہوا خون پاشتی۔
 سینتاری۔ (Seniority) (سی۔ بی۔ یا۔ بی۔ ٹی) (انگ۔ ۱) مذ)

حفظانِ صحت کے متعلق (۲) صحت افزا۔
 سینٹری انسپکٹر۔ (Sanitary Inspector) داروغہ صفائی۔
 صفائی کا معاوضہ کرنے والا عہدہ دار۔
 سینچنا۔ (۱) مص) آبپاشی کرنا۔ کھیتوں کو پانی دینا۔
 سیندنا۔ (ن۔ مص) پانی نکلنا۔
 سیندوا۔ (ن۔ ۱) مٹ) جنگلی کھجور۔
 سیندور۔ (سی۔ ۱) دور) (۱) مذ) سُرخ رنگ کا ایک سُٹوف جسے ہندو عورتیں مانگ میں بھرتی ہیں۔
 سیندور کھانا۔ آواز بند ہونے کی دوا کھانا۔
 سیندور یا۔ (سی۔ دور) (یا۔ ۱) صف) سیندور کے رنگ کا۔ لال۔ سُرخ (۲) ایک قسم کا آم۔
 سیندھ۔ (۱) مٹ) نقب۔ وہ سُرخ جو چوری کرنے کے لیے دیوار میں کیا جائے۔
 سیندھ لگانا۔ (۱) محاورہ) نقب لگانا۔ نقب زنی۔
 سیندھا۔ (سی۔ ۱) دھا) (۱) مذ) پہاڑی ٹنگ جو دریائے سندھ کے قریب پہاڑیوں سے نکلا جاتا ہے۔
 سیندھی۔ (سی۔ ۱) دھی) (۱) مٹ) کھجور کا رس۔
 سینڈل۔ (سی۔ ۱) ڈل) (انگ۔ ۱) مذ) چیل۔
 سینڈویچ۔ (Sandwich) (سینڈ۔ ویچ) (انگ۔ ۱) مذ) ڈبل ٹی کے دو توس جن کے بیچ میں گوشت، انڈے یا سبزی رکھی گئی ہو۔
 سینزری۔ (Scenery) (سی۔ ری) (انگ۔ ۱) مٹ) (۱) ڈرامہ وغیرہ کے پردے اور دیگر لوازم جن کے باعث کھیل کے فرضی واقعات اصلی معلوم ہوں (۲) منظر۔ نظارہ۔
 سینک۔ (۱) مٹ) (۱) بھارڈ کی تیلی (۲) خلال (۳) تنور کا گڑ۔
 سینک سُٹر پے تو لالہ جی کے ساتھ گئے۔ اب تو دیکھو اور کھا ڈ۔
 (مٹ) اب آگے سے بھی زیادہ کنایت شکاری کرو۔
 سینک۔ (۱) مذ) (۱) گرمی پیش (۲) وہ دوا جس سے ورم یا درد کی جگہ گرمی پہنچاتے ہیں (۳) سینکنے کا عمل۔
 سینکنا۔ (سینک۔ نا) (۱) مص) آگ سے گرم کرنا۔ گرمی پہنچانا۔
 سینکیا۔ (سینک۔ یا) (۱) مذ) ایک جالی دار کپڑا۔ ڈوریا۔
 سینک۔ (۱) مذ) (۱) لوگ دار ہڈی جو حیوانات کے سروں پر منجلی ہوتی ہے۔ شاخ حیوان (۲) کوئی خاص علامت۔
 سینک سمانا۔ (۱) محاورہ) (۱) پناہ ملنا۔ آسرا ملنا (۲) گزر جونا۔ موقع ہونا۔
 سینک کٹنا کپھڑوں میں ملنا۔ (۱) محاورہ) بڑی عمر کے آدمی کا کم عمروں کی صحبت میں شریک ہونا۔ بوڑھوں کا نوجوانوں کی سی وضع بنانا۔
 سینک نکلنا۔ (۱) محاورہ) (۱) جانور کا جوان ہونا (۲) دکھنا، پانگ ہونا۔
 سینکڑا۔ (سینک۔ ٹا) (۱) مذ) (۱) بارود رکھنے کا سینک (۲) سینک کا بجا جو مزے سے بھل کر طرح بکایا جاتا ہے۔
 سینکڑی۔ (سینک۔ ڈی) (۱) مٹ) بول کی پھیل۔
 سینکنا۔ (سینک۔ نا) (۱) مص) مسردہ مویشی شاخت کرنا۔
 سینکی۔ (سی۔ کی) (۱) مٹ) (۱) سوراخ کیا ہوا سینک جسے سینکے درد

<p>(۲) وہ شخص جس کا ظاہر اچھا اور باطن خراب ہو۔ سیوٹرا۔ (سیو۔ ٹرا) (۱۔ ۱۔ مذ) جین مت کا سادھو۔ جو اپن منہ باندھے رکھتا ہے۔ سیلوک۔ (سے۔ ڈک) (۱۔ ۱۔ مذ) (۱) نوکر۔ خدمتی۔ خدمت گار۔ چاکر۔ (۲) بچاری۔ جگت۔ عابد (۳) مرید۔ پیلا۔ سیلون۔ (سی۔ ون) (۱) مصلح (۲) سلائی (۳) انسانی جسم میں آلت تناسل اور ڈبر کی درمیانی جگہ کا جوڑ۔ سیونگ بینک۔ (Saving Bank) (سے۔ ڈنگ۔ بینک) (۱) مذ) عوام کی بچت کا روپیہ امانت رکھنے والا ادارہ۔ سیسہ۔ (سی۔ یے) (۱) صفت (۲) سیاہ کا محقق۔ کالا (۳) نخس۔ بد۔ سیسی۔ (سے۔ ہی) (۱) صفت (۲) مذ) ایک جانور جس کے تمام بدن پر کانٹے ہوتے ہیں۔ سیستات۔ (سی۔ آت) (۱) صفت (۲) جمع : بُرائیاں۔ سیسٹر۔ (سی۔ ا) (۱) مذ) بُرائی۔ بدی۔ گناہ۔</p>	<p>افہلیت۔ فوقیت۔ تقدم (۲) پُرانا ہونے کی خصوصیت۔ سینٹ۔ (Senate) (سے۔ نیٹ) (انگ۔ ۱۔ ص) (۱) مجالس وضع قوانین کا دوسرا یا اعلیٰ ایوان (۲) مجلس قانون ساز۔ سینیٹر۔ (Senator) (سے۔ نے۔ ٹر) (انگ۔ ۱۔ مذ) سینٹ کا ممبر۔ متفق۔ راجع قوانین۔ سینیئر۔ (Senior) (سی۔ نی۔ آر) (انگ۔ ص) برتر۔ بڑا۔ عمر ہند سے یا رتبے میں بڑا۔ سیوا۔ (سے۔ وا) (۱) صفت (۲) خدمت۔ چل (۳) تلاوت۔ ڈگری۔ سیوار۔ (سے۔ وار) (۱) صفت (۲) مذ) ایک قسم کی گھاس جس سے شکر صاف ہوتی ہے۔ سیواری۔ (سے۔ وا۔ ری) (۱) صفت (۲) مذ) ایک قسم کی شکر جو سیوار گھاس سے صاف کی جاتی ہے۔ سیوتی۔ (سیو۔ تی) (۱) صفت (۲) صفت گلاب (۳) فستق۔ سیورا۔ (سیو۔ را) (۱) مذ) مٹی کا بنا ہر پکا لیکن اندر سے کچا برتن۔</p>
---	---

ش

ش- (شین) [ع- مذ] اُردو کا انیسواں، فارسی کا سوٹھواں، عربی کا تیرھواں۔ اور ہندی کا تیسواں حرف۔ حسابِ ابجد میں اس کے تین سو عدد مقرر ہیں۔ پرتھی حرف ہے عربی ترکیب کے مطابق اگر اس سے پہلے "ال" آئے گا تو لام بولا نہیں جائے گا بلکہ شین کو مستند کر دے گا جیسے الشمس۔ ہندی اور سنسکرت میں "س" اور "کھ" کا بدل ہے جیسے دیس، دیش اور برکھا، برشا۔

ش-۱

شباب - [ع- مذ] جوان جو پندرہ برس سے چالیس برس تک کا آدمی۔
 شاب - [ف- ۱- ۱] پھٹری۔
 شاب - [ق- ۱- ۱] [ع- مذ] (۱) جھک۔ بدقن (۲) مشابہت (۳) شہاب۔
 شاباش - (شاباش) [ف] (کلہر تھیں) شاباش کا مخفف) مرجا۔ آفرین۔ خوش رہو۔ کیا کہنا۔ طنزاً کلہر نغزین۔
 شاباش دینا - (۱) عمارت (۲) آفرین کہنا۔ حوصلہ بڑھانا۔
 شاباشی - [ف- ۱- ۱] [ع- مذ] تعریف۔ تحسین۔ آفرین۔ مرجا۔
 شاباش - [ق- ۱- ۱] [ع- مذ] شاب کی جمع۔
 شابش - (شابش) [ف] شاباش کا مخفف۔ تعریف۔
 شاب - [Shop] [انگ- ۱] دکان۔ کارخانہ۔
 شاپ کبیر - (Shop Keeper) (انگ- ۱) دکان دار۔ خورد و فروش۔ بڑا گزر۔
 شاپور - (شاپور) [ف- ۱- ۱] [ع- مذ] بادشاہ کا بیٹا۔
 شاپور - (شاپور) [ع- مذ] گالی دینے والا۔ بڑا جھلاکتے والا۔
 شاپ گن - (Shot Gun) - (شاپ گن) [انگ- ۱] [ع- مذ] وہ بندوق جس میں چھڑ چلایا جائے۔
 شاش - [ف- ۱- ۱] [ع- مذ] (۱) ٹہنی۔ ڈالی (۲) جانوروں کا سینگ (۳) جھکڑ۔
 شاش - (۴) جانوروں کی گتھی کا طریقہ (۵) عجیب نقص (۶) کمان کی لکڑی۔
 (۷) ہنر۔ خوبی۔ (۸) ایک قسم کا قلم جو میدے کے خیمہ اور کھانڈ کو ملا کر بنائے ہیں (۹) چھوٹی نہر جو پانی سے نکلتے۔ (۱۰) نسل۔ اولاد۔
 (۱۱) مرغ کا کاٹا۔
 شاش آہو - (عزال) [ف- ۱- ۱] [ع- مذ] ہرن کے سینگ (۲) انوکھی بات۔
 شاشچو - (ت- ۱- ۱) [ع- مذ] چھوٹی شاش (۲) تمہت۔ ہتھان۔
 شاشچہ بندی - (ت- ۱- ۱) [ع- مذ] درخت میں قلم لگانا۔ (۲) تمہت لگانا۔
 شاش زار - (ف- ۱- ۱) [ع- مذ] شنی والا۔ سینگ والا۔
 شاش در شاش - (ف- ۱- ۱) [ع- مذ] بہت سی شاخوں والا پھل۔ بہت لمبا۔
 شاش دربا - (ف- ۱- ۱) [ع- مذ] دریا کا وہ حصہ جو دھار سے بڑھا ہو کر دوسری طرف بے۔
 شاش زعفران - (ف- ۱- ۱) [ع- مذ] (۱) انوکھا عجیب (۲) مغرور۔ خود نما۔
 شاش سار - (صفت) (۱) بہت سی ٹہنیوں والا (۲) درختوں کا جھنڈ۔

شاشخانہ - (ت- ۱- ۱) [ع- مذ] (۱) باتوں کا سلسلہ (۲) حجت۔ تکرار۔ بحث۔
 (۳) جھکڑا۔ (۴) رخت۔ عجیب (۵) بگمان (۶) دم۔ فریب۔
 (۷) بات کا پہلو (۸) جید۔ خورد نمائی۔
 شاشخانہ کھڑا ہونا - (۱) عمارت (۲) شاش لگانا۔ (۳) سیکنگ لگانا۔ (۴) ایک کام کے ساتھ دوسرا کام لگانا۔
 شاش نیات - (ف- ۱- ۱) [ع- مذ] (۱) وہ لکڑی جو مہری کا گوزہ بنانے کے لئے اس کے آنچلے میں لٹکا جیتے ہیں (۲) مہری کی ڈلی۔
 شاش لگانا - (۱) عمارت (۲) شاش لگانا۔ (۳) سینگ پیدا ہونا۔
 (۴) عجیب لگانا۔ (۵) جھکڑ لگانا۔ تکرار کرنا۔
 شاشیں لگانا - (۱) عمارت (۲) شاش لگانا۔ درخت کی ٹہنیاں لگانا۔
 (۳) ٹہنیاں لگانا۔
 شاشیں لگانا - (۱) عمارت (۲) عجیب لگانا۔ نقص ظاہر کرنا (۳) نقص لگانا۔ حجت تکرار کرنا (۴) درخت کا ٹہنیاں لگانا۔
 شاد - [ف- ۱- ۱] [ع- مذ] خوش۔ مسرور۔ بے غم۔
 شاد باش - (کلہر تھیں) (۱) شاباش۔ آفرین۔ خوش رہو۔
 شاد بایز زین تن - شاد بایز زین تن (ت) (مثل) زندگی اچھی ہو یا بڑی گزارنی پڑتی ہے۔
 شاد کام - (ف- ۱- ۱) [ع- مذ] بامراد۔ کامیاب۔ خوشحال۔
 شاد ماں - (ف- ۱- ۱) [ع- مذ] خوش و خرم۔
 شاداب - (شاداب) [ف- ۱- ۱] [ع- مذ] (۱) سرسبز۔ ہرا بھرا۔ تر و تازہ۔
 (۲) سیراب۔ پانی سے بھرا ہوا۔
 شادابی - (شادابی) [ف- ۱- ۱] [ع- مذ] (۱) سیرابی (۲) تر و تازگی۔ سرسبزی۔
 شاد اداں - (شاد اداں) [ف- ۱- ۱] [ع- مذ] خوش حال۔ خوش۔
 شاد اداں و فرحان - (ف- ۱- ۱) [ع- مذ] خوش خوش۔ لیکن۔
 شادام از زندگی خوشش کہ کار سے کروم - (ف- ۱- ۱) [ع- مذ] میں اپنی زندگی سے خوش ہوں کہ میں نے بہت بڑا کام کیا۔
 شادای - (شادای) [ف- ۱- ۱] [ع- مذ] (۱) خوشی (۲) عید۔ تیوہار۔ جشن (۳) بیہ۔
 شادای خانہ آبادی - (ت- ۱- ۱) [ع- مذ] بیابان کر کے گھر آباد کرنا۔
 شادای کرنا - (۱) عمارت (۲) شاش لگانا۔ (۳) بیابان کرنا۔ (۴) جشن کرنا۔ خوشی کرنا۔
 شادای مرگ - (ف- ۱- ۱) [ع- مذ] (۱) موت جو حد سے زیادہ خوشی سے واقع ہے۔

شادیاں گنانا۔ (۱- محاورہ) مزے کرنا بکچھ سے اڑانا (ق) خوشی منانا۔
 شادیاں نہ۔ (شاد- یا نہ) [ف- ۱- ند] (۱) شادی کی نوبت نہ خوشی کا باجر۔
 مبارک باد۔
 شادیاں نہ بجانا۔ (۱- محاورہ) خوشی کی نوبت بجانا۔ فتح کا نفاہ بجانا۔
 شاد۔ (ع- صفت) عجیب۔ نادرا۔ اونکا غیر معمولی اتفاقاً۔ گاہے گاہے۔
 شاد شاد۔ (ع- متعلق فعل) بہت کم کبھی کبھی۔ اتفاقاً۔
 شادو نادر۔ (ع- متعلق فعل) بہت کم کبھی کبھی۔ اتفاقاً۔
 شاد۔ (ف- ۱- ند) پانی کا گرتا۔ مرکبات میں جیسے آشاد (۲) بتا ہوا۔ ڈالا
 ہوا مرکبات میں مرشار۔
 شارب۔ (شاد- ب) [ع- صفت] پینے والا۔ جمع۔ شاربین۔ شارب۔
 شارٹ کٹ۔ (Short Cut) (شارٹ کٹ) [انگ- ۱]
 مختصر راستہ۔
 شارٹ ہینڈ۔ (Short-Hand) (شارٹ ہینڈ)
 [انگ- ۱- ند] مختصر نویسی۔
 شارب۔ (ع- صفت) کھول کر بیان کرنے والا۔ شرح کرنے والا۔ شرح کھنے والا
 شاد۔ (ق- ۱- ند) (۱) پرنہ (۲) ایک قسم کا باجر۔
 شارع۔ (ع- ۱- ند) (۱) بڑا راستہ۔ سڑک (۲) [صفت] شریعت بتانے والا
 صاحب شرح۔
 شایع اسلام۔ (ع- ۱- ند) حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد ہے۔
 شایع عام علم راستہ گزراہ عام۔ وہ راستہ جس پر شخص کو چلنے کا حق ہو۔
 شایک۔ (شاد- ک) [ف- ۱- ند] (۱) پشیمان۔ ایک پرنہ۔
 شایک۔ (Shark) [انگ- ۱- مٹ] ایک خطرناک مچھلی جو آدی کو
 بھی کھا جاتی ہے۔
 شاستر۔ (شاس- تر) [۱- ۱- ۵- ند] (۱) ہدایت کرنے یا سکھانے کا آکر (۲) حکم
 فرمان (۳) دستور قواعد (۴) ہندوؤں کی مذہبی کتاب۔
 شاستری۔ (شاس- ت- ری) [۵- صفت] شاستر جاننے والا۔ پندت۔
 شاش۔ شاشہ (شاش- شاش) [ف- ۱- ند] پشیمان۔ موت۔
 شاطر۔ (ع- صفت) (۱) شوخ۔ بخار۔ چالاک (۲) شطرنج کھینے والا (۳) وہ شخص
 جو کسی پر بار نہ ہو۔
 شاعر۔ [ع- صفت] شعر کہنے والا۔ کوی۔ جمع۔ شعرا۔
 شاعرانہ۔ (شا- ا- رانہ) [ع- ف- صفت] (۱) شاعر کے طریقہ پر (۲)
 شاعر سے منسوب (۳) مبالغہ آمیز۔
 شاعرہ۔ (شا- ا- رہ) [ع- صفت] عورت۔ شاعر۔
 شاعری۔ (شا- ا- ری) [ع- ۱- مٹ] (۱) شعر گوئی شعر کہنا (۲) مبالغہ آمیزی۔
 شاعری کرنا۔ (۱- محاورہ) (۱) شعر کہنا۔ مبالغہ کرنا
 شاعری۔ (شاعری) [ع- صفت] (۱) مصروف۔ شوق (۲) خدا کا ذکر کرنے والا۔
 شایخ۔ (شایخ) [ع- صفت] شفا عمت کرنے والا۔ سفارش کرنے والا۔
 حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد۔
 شافعی۔ (شافعی) [ع- ۱- ند] (۱) امام شافعی کی پیروی کرنے والا۔
 (۲) اہل سنت والجماعت کے چار اماموں میں سے ایک کا نام۔

شاقہ۔ (شاقہ- قہ) [ف- ۱- ند] (۱) وہ رُدی جو دو اہم جھگو کر اگھوں پر رکھتے
 ہیں (۲) وہ بچی جو دو اہم جھگو کر زخم میں دیتے ہیں (۳) دو یا تین کی
 بچی جو درمیں پاجانہ آنے کے لیے لکھی جاتی ہے۔
 شافی۔ (ع- صفت) (۱) صحت یا شفا دینے والا۔ (۲) تسکین دینے والا۔
 (۳) شہ رخ کرنے والا (۴) صفت فیصلہ کن۔ قطعی۔
 شافی جواب۔ (ع- ۱- ند) ٹھیک اور درست جواب۔ ایسا جواب جس کے بعد
 کچھ کہنے کی ضرورت نہ ہو۔
 شافی مطلق۔ (ع- ۱- ند) خدا تعالیٰ۔
 شاقی۔ (ع- صفت) (۱) مشکل۔ دشوار۔ (۲) دو بھر۔ ناگوار۔
 شاق گزارنا۔ (۱- محاورہ) ناگوار معلوم ہونا۔ بڑا لگنا۔
 شاقول۔ (شاقول) [ع- ۱- ند] معماروں کا ساہول جس سے دیوار کی
 سدھائی دیکھتے ہیں۔ سابل۔
 شاقہ۔ (شاق- قہ) [ع- صفت] سخت۔ مشکل۔ دشوار۔
 شاکر۔ (ع- صفت) (۱) شکر گزار۔ شکر کرنے والا (۲) صابر۔ خالص۔
 شاکر کو شکر تو موزی کو گھر (مثیل) شکر کرنے والے کو نعمتیں ملتی ہیں اور
 موزی کو تکلیفیں پہنچتی ہیں۔
 شاکل۔ (ع- ۱- ند) مشابہت (۲) سفیدی جو کانوں اور کینٹی کے
 درمیان ہوتی ہے۔
 شاکلی۔ (شاکلی) [ع- صفت] شکایت کرنے والا۔ گلہ کرنے والا۔
 شاگرد۔ (شاکر- گد) [ف- ۱- ند] وہ جو استاد سے کچھ سیکھے۔ متعلم طالب علم
 تلمیذ (۲) خدمت گار۔ نوکر (۳) چملا۔
 شاگرد پیشہ۔ (ف- ۱- ند) (۱) نوکر جو کچھ خدمت گار۔ اور بیکار کام
 کرنے والے (۲) اعلیٰ ملازموں کے رہنے کے مکان جو کسی محل۔ کوٹھی
 یا بنگلہ کے قریب ہی بنے ہوں۔
 شاگرد رشید۔ (ف- ۱- ند) ہدایت یافتہ شاگرد۔ لائق شاگرد۔
 شاگرد رفتہ رفتہ استاد می رسد۔ (ف- مثل) شاگرد آہستہ آہستہ ترقی
 کرتے ہوئے استاد بن جاتا ہے۔
 شاگرد ہونا۔ (۱- محاورہ) قابل ہونا۔ معتمد ہونا۔
 شاگردی۔ (ف- ۱- مٹ) شاگرد ہونا۔ کسی سے علم سیکھنا۔ طالب علمی
 شال۔ (ف- ۱- مٹ) آدن یا پشم کی چادر۔
 شال باف۔ (ف- ۱- ۱- ند) شال بننے والا۔
 شال دوز۔ (ف- ۱- ند) شال پر پیل بونے بنانے والا۔
 شالہ۔ (۱- ۱- ۵- ند) مکان۔ گھر (۲) مدرسہ (۳) کوہ۔ کوٹھڑی (۴)
 کام کرنے کی جگہ مرکبات میں جیسے پانچ شالہ۔ دھرم شالہ۔
 شالی۔ (شالی) [۵- ۱- ند] ڈھان۔ چاول (۲) شال سے منسوب۔
 شام۔ (۱- ۱- ۵- مٹ) (۱) کسی دھات کا بنا ہوا چمچلا جو اوزاروں یا چھڑیوں
 پر لگاتے ہیں۔ (۲) کرشن جی کا ایک نام۔
 شام۔ [ف- ۱- مٹ] (۱) سورج ڈوبتے کا وقت۔ غروب آفتاب۔
 (۲) بچہ روم کے کاندے ایک ملک۔
 شام اودھ۔ (۱- مٹ) حسین آؤر دیکش شام۔ اودھ کی شام۔

شام بھولنا۔ (۱- محاورہ) شفق پھولنا۔ شام کے وقت سڑکی کا مغرب سے نورا ہونا۔
 شام جوانی۔ (۱- محاورہ) جوانی کے آخری دن جوانی کے ڈھلنے کا وقت۔
 شام صبح لگانا۔ (۱- محاورہ) حیلہ حوالہ کرنا۔
 شام غزبت۔ (ف- ۱- صفت) مسافری کی شام جو غریبی میں بہت تکلف دہ ہوتی ہے۔
 شام خوبیاں۔ (ف- ۱- صفت) (۱) مسافری کی شام (۲) مصیبت کی شام۔ (۳) تنہائی کی شام۔ گیندوں میں محرم کی شام۔
 شام کا بھولا صبح کو گھر آئے تو اسے بھولا نہیں کہتے۔ (مثلاً) اگر کوئی شخص کسی معاملہ میں غلطی کر کے کچھ دیر بعد صبح راستہ پر آجائے تو اسے غلط کار نہیں کہتے۔
 شام کا صبح کرنا۔ (۱- محاورہ) رات کا ٹانا۔ ساری رات جاگتے رہنا۔
 شام کلیمان۔ (۱- ۱- ۵) شام کاراگ۔
 شام کی پوچھنا سحر کی کہنا۔ (۱- محاورہ) بے نکاحیاب دینا۔
 شام کے تڑپے کو کب تک رو دیتے۔ (مثلاً) تم بھر کے بھگڑے کی کب تک شہ کایت کیجیے۔
 شام نہ دیکھنا۔ (۱- محاورہ) شام تک زندہ نہ رہنا۔
 شام و بچا۔ (ف- ۱- ۱- ۵) دن رات (۲) پروقت۔
 شام و بچہ۔ (ف- ۱- ۱- ۵) صفت) دونوں وقت۔ ہر وقت۔
 شام و سحر کرنا۔ (۱- محاورہ) جلد حوالہ کرنا۔ ٹاننا۔
 شام۔ (اشا۔ ۱- ۵) صفت) ایک خوش الحان چھوٹا پرندہ۔
 شاماک۔ (شاماک) (ف- ۱- ۱- ۵) صفت) عورتوں کا سینہ بند۔ (نگیا۔
 شامپین۔ (Champaign)۔ (شامپین) (انگ۔ ۱- ۱- ۵) صفت) عمدہ الجھوری شراب۔
 شامت۔ (ع- ۱- ۱- ۵) صفت) بد نصیبی۔ برائی۔ آفت۔ سخت۔
 شامت آنا۔ (مضربک) بڑے دن آنا۔ مصیبت آنا۔
 شامت اعمال۔ (ع- ۱- ۱- ۵) صفت) کیسے کی سزا کو توت کا بدلہ۔
 شامت اعمال ماحوریت ناورد گرفت۔ (ف- ۱- ۱- ۵) صفت) ہمارے گناہوں کی سزا نے نادر کی صورت اختیار کی۔ یہ مصرعہ نظام الملک نے اس وقت کہا تھا جب نادر شاہ کے ظلم و ستم نے دہلی میں قیامت برپا کی تھی۔
 شامت زدہ۔ (ع- ۱- ۱- ۵) صفت) طبیعت زدہ شراب حال۔
 شامت کا مارا۔ (ع- ۱- ۱- ۵) صفت) مصیبت میں مبتلا۔ بد نصیب۔
 شامت کی مار۔ (۱- ۱- ۵) صفت) بد نصیبی۔ کم بختی۔ نصیبوں کی خرابی۔
 شامت میں پھینسا۔ (۱- محاورہ) آفت میں پھینسا۔ مصیبت میں مبتلا ہونا۔
 شامیں کبھی کبھی تھوڑا آتی ہیں۔ (۱- مقولہ) مصیبتیں اطلاع دے کر نہیں آتی۔
 شامتی۔ (شام۔ ۱- ۱- ۵) صفت) بد نصیب مصیبت کا مارا۔
 شامل۔ (شامل) (ع- ۱- ۱- ۵) صفت) ساتھ۔ ملا ہوا۔ شریک۔
 شامل حال۔ (۱- ۱- ۵) صفت) شریک حال۔ ساتھ۔
 شامل کرنا۔ (مضربک) ملانا۔ شریک کرنا۔ چورنا۔ لگانا۔
 شامل مسل۔ (۱- ۱- ۵) صفت) کاغذات مقدمہ کے ساتھ لگا ہوا۔ مسل کے ساتھ

نہتی کیا ہوا۔
 شایلات۔ (شام۔ ۱- ۱- ۵) صفت) (۱) وہ ملکیت یا جائیداد جو بہت سے آدمیوں میں مشترک ہو (۲) حصہ داری۔ سماجھا۔ (۳) وہ زمین جو مالکان دیہہ کی مشترک ہو۔
 شامہ۔ (شام۔ ۱- ۱- ۵) صفت) سوکھنے کی توت یا جس۔
 شامی۔ (ع- ۱- ۱- ۵) صفت) ملک شام کا رہنے والا۔ شام سے منسوب۔
 شامی کباب۔ (ع- ۱- ۱- ۵) صفت) وہ کباب جو گوشت کو مع مسالہ آبل کر پلینے کے بعد مکیاں بنا کر تے جاتے ہیں۔
 شامیانہ۔ (شامی۔ ۱- ۱- ۵) صفت) (۱) کپڑے کا سا بنان۔ چھتری بنیگرہ۔
 شامیانہ کھینچنا۔ لگانا۔ (۱- محاورہ) شامیانہ کھڑا کرنا۔
 شان۔ (ع- ۱- ۱- ۵) صفت) عظمت۔ شوکت۔ دیدہ۔ عزت۔ ترقی (۲) قدرت طاقت (۳) انداز۔ طرز۔ وضع (۴) نسبت۔ حق میں (۵) عاقبت۔ خوبی۔ شان الہی۔ شان خدا۔ شان حق۔ (ع- ۱- ۱- ۵) صفت) خدا کی تدرت یا طاقت۔ شان برستا۔ (۱- محاورہ) رعب و دبدبہ نمایاں ہونا۔ عظمت و شوکت ظاہر ہونا۔
 شان بانا۔ (۱- محاورہ) انداز مانا۔ عزت حاصل ہونا۔
 شان جانا۔ (۱- محاورہ) رتبہ گھٹنا۔ عزت میں فرق آنا۔
 شان چوٹا۔ (۱- ۱- ۵) صفت) دوسروں کی طرز یا وضع اختیار کرنے والا۔
 شان خط۔ (ف- ۱- ۱- ۵) صفت) تحریر کا انداز۔ لکھنے کا طریقہ۔
 شان دار۔ (ف- ۱- ۱- ۵) صفت) (۱) خلیفستان ذی شان۔ بلند (۲) ذی رتبہ باعظمت (۳) دھوم دھام کا (۴) خوشنما۔
 شان دکھانا۔ (۱- محاورہ) اترانا۔ شہی گھارنا (۳) عیب ظاہر کرنا۔
 شان عبودیت۔ (ف- ۱- ۱- ۵) صفت) بندگی کی شان خدا کے لئے تسلیم کرنا۔ راضی ہونا۔
 شان کا مارا جانا۔ (۱- محاورہ) عزت و حرمت میں فرق آنا۔
 شان گھٹنا۔ عزت اور وقار کم ہونا۔
 شان میں ٹہ لگنا (جھٹنے لگانا)۔ (۱- محاورہ) عزت گھٹنا۔ بے عزتی ہونا۔
 شان نزول۔ (ع- ۱- ۱- ۵) صفت) کبیت خدائی کے اترنے کا موقع۔ باعث نزول۔
 شان نکلنا۔ (۱- محاورہ) آن بان ظاہر ہونا۔ انداز ظاہر ہونا۔
 شان و شوکت۔ (ع- ۱- ۱- ۵) صفت) (۱) رعب و اب (۲) ٹھٹھا۔ احتشام۔
 شانقت۔ (س- ۱- ۱- ۵) صفت) مطمئن۔ صابر۔ تابع۔
 شانقتی۔ (شانقتی) (۱- ۱- ۵) صفت) (۱) امن۔ ٹھٹھا۔ آرام (۲) تسلی۔ اطمینان۔ دلجمعی۔
 شانقت۔ (ق- ۱- ۱- ۵) صفت) مکاری۔ عیاری۔
 شانقت۔ (شانقت) (ف- ۱- ۱- ۵) صفت) (۱) کنگھی۔ (۲) کا ندھا۔ موٹھا۔
 شانقت از جانا۔ (۱- محاورہ) موٹھے یا کا ندھے کی ہڈی کا اپنی جگہ سے ہٹ جانا۔
 شانقت پھر کرنا۔ (۱- محاورہ) کا ندھے کا پھر کرنا جو کسی دوست کے ملنے کا شکر لکھنا سمجھا جاتا ہے۔
 شانقت سے شانقت پھیلنا۔ (۱- محاورہ) نجوم کے باعث کا ندھے سے کا ندھا لگانا۔
 شانقت بھڑھڑنا۔
 شانقت کرنا۔ (مضربک) کنگھی کرنا۔
 شانقت پلانا۔ کا ندھا ملا کر کھانا۔
 شانقت۔ (Shower) (انگ۔ ۱- ۱- ۵) صفت) فوارہ جو غسل خانوں میں لگا ہوتا ہے۔

شاہ - (ف۔ ۱۔ مذ) (۱) آقا۔ مالک (۲) بادشاہ۔ سلطان (۳) فیروں کا لقب (۴) شطرنج کا ایک مہر (۵) نوشر۔ دولہا۔ (۶) سیدوں کے نام کا مخصوص لفظ (۷) بڑا عظیم مرکبات میں آتا ہے جیسے شاہ زور شاہ کبوتر شاہ باز شہناز۔ (ف۔ ۱۔ مذ) (۱) بڑا باز جس سے شکار کرتے ہیں۔ (۲) شاہ ہیں۔

شاہ بالا۔ شہہ بالا۔ (ف۔ ۱۔ مذ) (۱) وہ قریبی رشتہ دار لڑکا جس کو چٹھے ٹیڑھے پہنا کر دولہا کے چھٹھے گھوڑی پر بٹھا دیتے ہیں۔ (۲) ہمدوش شاہ بلوط۔ (ف۔ ۱۔ مذ) ایک پھاڑی دخت۔ اوک کا بیڑ۔

شاہ بیت۔ (ف۔ ۱۔ مٹ) قصیدہ یا غزل کا بہترین شعر۔

شاہ برہنہ۔ (ف۔ ۱۔ مذ) برہنہ کے بازو کا سب سے بڑا پر۔

شاہ نرسف۔ (ف۔ ۱۔ مٹ) بادشاہت کا عالی۔

شاہ ترا (شاہ تہرا)۔ (ف۔ ۱۔ مذ) ایک مصفی خون دوا۔ پت پاپڑا۔

شاہ قوت۔ (ف۔ ۱۔ مذ) ایک مٹکا ٹرا ٹوت۔ شہتوت۔

شاہ خانم۔ (ف۔ ۱۔ مٹ) (۱) بڑے گھر کی عورت (۲) تنکتر عورت۔

شاہ خاور۔ (ف۔ ۱۔ مذ) شاہ مشرق۔ آسمان کا بادشاہ۔ سورج۔

شاہ خرج۔ (۱۔ صفت) بہت خرچ کرنے والا۔ فضول خرچ۔

شاہ دانہ۔ (ف۔ ۱۔ مذ) بھنگ کا بیج (۲) بڑا مٹی (۳) شہج کا بڑا دانہ۔

شاہ درہ۔ شاہ درہ۔ وہ آبادی یا گاؤں جو دریا کے دوسرے کنارے پر شاہی محل کے مقابل ہو۔

شاہ راہ۔ شاہ راہ۔ بڑا راستہ۔ جو نیلی شکر۔ شاہ عام۔ بادشاہی لڑکے۔

شاہ رگ۔ (ف۔ ۱۔ مٹ) بڑی رگ جو گڑوں میں سے گزرتی ہے۔ رگ جاں۔

شاہ زادہ شہزادہ۔ (ف۔ ۱۔ مذ) (۱) بادشاہ کا لڑکا (۲) شاہی خاندان کا ایک فرد۔ (۳) بیچارہ لڑکا۔

شاہ زادی۔ شہزادی۔ (ف۔ ۱۔ مٹ) (۱) بادشاہ کی لڑکی (۲) شاہی خاندان کی عورت (۳) کنول کے ٹھیلوں کا زبرد ریزہ۔

شاہ سوار شہسوار۔ (ف۔ ۱۔ مٹ) گھوڑے کی سواری کا ماہر۔

شاہ عباس کا علم ٹوٹے۔ (بدعا) حضرت عباس کے علم کی مار پڑے تباہ ہو۔ برادر ہو۔

شاہ کار۔ شاہکار۔ شہکار۔ (ف۔ ۱۔ مذ) سب سے بڑا کارنامہ (انگ) (Masterpiece)

شاہ گام۔ شہ گام۔ (ف۔ ۱۔ مذ) گھوڑے کی ایک عمدہ جاں۔

شاہ لولاک۔ (ف۔ ۱۔ مذ) جناب رسالہ قلمیہ اسلام صلی اللہ علیہ وسلم۔

شاہ مرداں۔ (ف۔ ۱۔ مذ) حضرت علی کا لقب۔

شاہ مشرق۔ (ف۔ ۱۔ مذ) گمنا سورج۔

شاہ نشین۔ شہ نشین۔ (ع۔ ۱۔ مذ) (۱) بادشاہ کے بیٹھنے کی جگہ (۲) مکان کی کسی کھڑکی کے آگے بڑھا کر بنائی ہوئی جگہ۔

شاہ دار۔ شہوار۔ (ف۔ ۱۔ مٹ) بادشاہوں کے لائق۔ نہایت عمدہ نفیس چیز۔

شاہ یار۔ (شاہ یار)۔ (ف۔ ۱۔ مٹ) بادشاہوں کے موافق۔ بادشاہوں کے مانند۔ سلطانی۔

شاہانہ جوڑا۔ (ف۔ ۱۔ مذ) دولہا کا سچ جوڑا۔ شہج پو شاک۔ بادشاہوں۔

قیمتی لباس۔

شاہانہ مزاج۔ (ف۔ ۱۔ مذ) نازک طبیعت۔

شاہ ترہ۔ (شاہ۔ مٹ۔ ۱۔ مذ) [۱] شاہ ایک تنگ ساگ۔ پت پاپڑہ۔

شاہد۔ (شاہد)۔ (ع۔ ۱۔ مذ) (۱) گواہ (۲) حسین معشوق محبوب۔

شاہد باز۔ (ف۔ ۱۔ صفت) نوجوان لڑکوں یا حسین عورتوں سے زیادہ محبت رکھنے والا۔ حسن پرست۔

شاہد بازار۔ (ع۔ ۱۔ صفت۔ مٹ) بازار میں معشوق۔ طوائف۔

شاہد حال۔ (ع۔ ۱۔ صفت) واقعہ کا چشم دید گواہ۔

شاہد عادل۔ (ف۔ ۱۔ صفت) سچا گواہ۔

شاہد مقصود۔ (ف۔ ۱۔ صفت) مقصود کا شاہد سے استعارہ کرتے ہیں۔

شاہد ہی۔ (شاہ۔ ۱۔ مٹ) [ع۔ ۱۔ مٹ] شہادت۔ گواہی۔

شاہد شاہ۔ (شاہ۔ ۱۔ مٹ) [ع۔ ۱۔ مذ] بادشاہوں کا بادشاہ جیسے بڑا بادشاہ۔

شاہی۔ (ف۔ ۱۔ صفت) بادشاہی۔ سلطانی۔

شاہین۔ (شاہ۔ ۱۔ مٹ) [ع۔ ۱۔ مذ] (۱) ایک سفید رنگ کا شکاری پرندہ تراؤکی ستونی یا ڈبڑی۔

شاہ سیمہ۔ (شاہ۔ ۱۔ مٹ) [ع۔ ۱۔ مذ] آمیزش۔ آلودگی۔ ملاوٹ۔ شک شبہ۔ احتمال۔

شاہ سنگی۔ (شاہ۔ ۱۔ مٹ۔ گئی) [ع۔ ۱۔ مٹ] (۱) تہذیب منانیت (۲) اخلاق۔ مروت۔ آدمیت۔

شاہ سنہ۔ (شاہ۔ ۱۔ مٹ) [ع۔ ۱۔ صفت] (۱) مہذب۔ باسلیقہ۔ باقیہ۔ (۲) مناسب۔ موزوں (۳) بااخلاق۔ با مروت۔

شاہ شائع۔ (شاہ۔ ۱۔ مٹ) [ع۔ ۱۔ صفت] (۱) فاش۔ آشکارا (۲) چھاپ کر شہر کیا ہوا۔

شاہ شائع ہونا۔ چھپ کر شہر ہونا۔

شاہ شاق۔ (شاہ۔ ۱۔ مٹ) [ع۔ ۱۔ صفت] شوقین شوق رکھنے والا۔ مشتاق۔ آرزو مند۔

شاہ شکار۔ (شاہ۔ ۱۔ مٹ) [ع۔ ۱۔ صفت] (۱) وہ چیز جو بادشاہوں کے لائق ہو (۲) مٹ [ع۔ ۱۔ مٹ] بیگار (۳) قافیہ کا ایک عیب۔

شاہ تباہ۔ (شاہ۔ ۱۔ مٹ) [ع۔ ۱۔ صفت] لائق۔ مناسب۔ موزوں۔ زیبا۔

شاہ تندر۔ (شاہ۔ ۱۔ مٹ) [ع۔ ۱۔ صفت] غائب۔ ممکن ہے۔

شاہ تابد و باید۔ (ف۔ ۱۔ مٹ) (ع۔ ۱۔ صفت) جیسا چاہیے تھا۔ جوئی۔ ہر طرح سے۔

ش۔ ب

شب۔ (ف۔ ۱۔ مٹ) رات۔ رین۔

شب اسرا۔ (مص۔ ع۔ صفت) معراج کی رات۔

شب افروز۔ (ف۔ ۱۔ مٹ) رات کو روشن کرنے والا (۲) جگنو۔ چاند۔

شب احمد۔ (ف۔ ۱۔ مٹ) رات کی رات۔

شب انتظار۔ (ف۔ ۱۔ مٹ) وہ رات جو کسی کے انتظار میں گئے۔

شب اول۔ (ف۔ ۱۔ مٹ) دو ٹھانڈی کی پہلی رات۔

شب ماش۔ (ف۔ ۱۔ مٹ) رات کی رات۔ رینے والا۔

شب بائسی - (ف. ۱۔ ۱۱) رات کا قیام - رات رہنا -
 شب بخیر - (ف. کلہ خیر) (۱) رات خیر سے گزرے (۲) رات کو رخصت ہونے کا سلام -
 شب برات - (۱) شیطان کی چودھویں اور پندرہویں تاریخ کی درمیانی رات مسلمانوں کے عقائد کے بموجب اس رات کو عمر کا حساب اور تقسیم وزن کا کام ہوتا ہے (۲) خوشی کی بات -
 شب برات کا گھڑا مسلمانوں میں رسم ہے کہ شب برات کے دن مردوں کا فاتحہ پڑھ کر مسکیتوں کو کھانا کھلاتے ہیں -
 شب بو - (ف. ۱۔ ۱) مذ. ایک قسم کا سفید پھول جس کی خوشبو رات کو پھلتی ہے -
 شب بھر - (ف. ۱۔ ۱) تمام رات -
 شب بیدار - (ف. ۱۔ ۱) صفت) رات کو جاگ کر عبادت کرنے والا - رات بھر جاگنے والا -
 شب بیداری - (ف. ۱۔ ۱) رات کا جاگنا - بے خوابی -
 شب تپا - (ف. ۱۔ ۱) صفت) رات کو چمکنے والا (۲) چاند (۳) چراغ (۴) گنگو (۵) جواہر -
 شب تارا (تاریک) اندھیری رات -
 شب چہارہ - (ف. ۱۔ ۱) رات چاند کی چودھویں رات -
 شب چراغ - (ف. ۱۔ ۱) صفت) رات کو چمکنے والا (۲) گنگو -
 شب خوابی - (۱) رات کی پوشاک - رات کو پہن کر سونے کے کپڑے (۲) رات کا سونا -
 شب خوانی - (ف. ۱۔ ۱) رات - وہ تصدقات کو داستان کو پڑھا کرتے ہیں -
 شب خون - (ف. ۱۔ ۱) مذ. رات کا حملہ چھاپا - رات کے وقت بے خبری میں دشمن پر حملہ کرنا -
 شب خون مارنا - (۱) محاورہ) چھاپا مارنا - رات کو اجانک حملہ کرنا -
 شب خیز - (ف. ۱۔ ۱) صفت) شب بیدار - رات کو اٹھنے والا -
 شب جزئی - (ف. ۱۔ ۱) رات - شب بیداری - رات کو اٹھنا -
 شب خیزیا - (ف. ۱۔ ۱) صفت) خزاں جو رات کو ٹوٹے -
 شب درمیان ہونا - (۱) محاورہ) بیچ میں ایک رات کا وقفہ ہونا -
 شب دیخور - (ف. ۱۔ ۱) صفت) اندھیری رات -
 شب دیز - (ف. ۱۔ ۱) مذ. سیاہ رنگ کا گھوڑا - مشکلی گھوڑا -
 شب دیگ - (ف. ۱۔ ۱) رات - ایک قسم کا سالن جس میں گوشت اور شحم رات بھر کاتے ہیں -
 شب رنگ - (ف. ۱۔ ۱) مذ. (۱) سیاہ رنگ کا گھوڑا (۲) تاریک سیاہ -
 شب زفاف - (ف. ۱۔ ۱) رات - (۱) صفت) دو لہاؤں کی پہلی رات - سخت کی رات - ہم بستری کی پہلی رات -
 شب زندہ دار - (ف. ۱۔ ۱) مذ. (۱) رات بھر جانے والا (۲) عابد -
 شبستان - (ف. ۱۔ ۱) رات - (۱) بادشاہوں کے سونے کا کمرہ (۲) خلوت خانہ - حرم سرا (۳) مسجد کی وہ جگہ جہاں رات کو عبادت کرتے ہیں -
 شب رخاب (ف. ۱۔ ۱) رات -
 شب شہادت - (ف. ۱۔ ۱) رات - (۱) صفت) حرم کی نویں رات جس کی صبح کو حضرت

امام حسینؑ شہید ہوئے تھے -
 شب ظلمات - (ف. ۱۔ ۱) رات - سخت کالی رات -
 شب عاشورہ - (ف. ۱۔ ۱) رات - نویں اور دسویں محرم کی درمیانی رات -
 شب غم - (ف. ۱۔ ۱) رات - جدائی کی رات - رنج کی رات -
 شب قدر - (ف. ۱۔ ۱) رات - لیلۃ القدر - مسلمانوں کے عقائد کے مطابق ایک نہایت متبرک رات - اس کے تعین میں اختلاف ہے عموماً رمضان کی ستائیسویں شب قدر کہلاتی ہے -
 شب گور - (ف. ۱۔ ۱) مذ. وہ جسے رات کو دکھائی نہ دے -
 شب گوری - (ف. ۱۔ ۱) رات - رات کو دکھائی نہ دینا - اندھانا -
 شب کی شب - (۱) متعلق فعل) رات کی رات - رات بھر کے لیے -
 شب گر - (ف. ۱۔ ۱) صفت) رات کو پھرنے والا (۲) کوٹواں - سپاہی چوکیدا -
 شب گوں - (۱) کالا سیاہ (۲) رات کی مانند -
 شب گر - (ف. ۱۔ ۱) صفت) پھلنی رات کا سفر - پھلنی رات کا مسافر -
 شب ماہ - (۱) شب ماہتاب - شب تپا - (ف. ۱۔ ۱) صفت) چاندنی رات -
 شب معراج - ۲۷، ۲۸ - جب کی درمیانی رات جس میں پیغمبر اسلام کو معراج ہوئی -
 شب تکار بندان - (ف. ۱۔ ۱) رات - وہ رات جب دلہن کے ہنسی لگائی جاتی ہے -
 شب و روز - (ف. ۱۔ ۱) متعلق فعل) دن رات -
 شب وصال - (ف. ۱۔ ۱) رات - (۱) صفت) رات کی رات - (۲) وہ رات جس میں کسی کامل فقیر کا انتقال ہو -
 شب یلدا - (ف. ۱۔ ۱) صفت) سخت تاریک رات (۲) سال کی سب سے لمبی رات - جب سورج اور چاند میں داخل ہونے کو ہوتا ہے -
 شبنا - (ف. ۱۔ ۱) مذ. شب خون -
 شباب - (ش. باب) [ع. ۱۔ ۱] مذ. (۱) جوانی (۲) شروع - آغاز - ابتدا - (۳) خروج کا زمانہ (۴) ایک پردہ موسیقی کا نام -
 شباب اہل جنت - (ع. ۱۔ ۱) مذ. حضرت امام حسنؑ و حسینؑ کی شہادت - شریف کے مطابق جوانان اہل جنت کے سردار ہوں گے -
 شباب بھڑ بھڑنا - (۱) محاورہ) جوانی کا زور ہونا -
 شباب پھڑنا - (۱) محاورہ) جوانی دوبارہ آنا -
 شبابیات - (ع. ۱۔ ۱) رات - جوانی سے متعلق باتیں -
 شبانہ شب - (ش. ۱۔ ۱) شب [ف. ۱۔ ۱] راتوں رات - تمام رات - رات بھر -
 شبانہ - (ع. ۱۔ ۱) مذ. (ش. بان) [ف. ۱۔ ۱] مذ. چرواہا - گڈریا -
 شبانگاہ - (ش. بان - نگاہ) [ف. ۱۔ ۱] رات کا وقت -
 شبانہ - (ش. بان - نہ) [ف. ۱۔ ۱] رات کا وقت -
 شبانہ روز - (ف. ۱۔ ۱) متعلق فعل) شب و روز - ہر وقت - دن رات -
 شبانہ ہمت - (ش. بان - ہمت) [ع. ۱۔ ۱) صفت) [مشابہت - مطابقت - (۲) شکل صورت (۳) رونق رعب -
 شبند - (ع. ۱۔ ۱) مذ. (۱) آواز (۲) لفظ (۳) قواعد زبان (۴) بھجن -
 شب جور - (ع. ۱۔ ۱) مذ. نقال - دوسروں کے مہیا میں چوری کرنے والا -
 شبند شائستر - (ع. ۱۔ ۱) مذ. قواعد زبان - علم صرف و نحو -

ش۔ت

شبتا۔ (ش۔تا) [ع۔ا۔ مذ] جاڑا سردی کا موسم۔
شبتاب۔ (ش۔تاب) [ن] جلد بھٹ پیٹ۔ بلا توقف۔ فوراً۔
شبتاب کار۔ (ف۔ا۔ مذ) جلد باز۔ پھرتیلا۔
شبتابا۔ (ش۔تا۔با) [ا۔ا۔ مذ] بارود لگا ہوا کاغذ کا فتیدہ۔
شبتانی۔ (ش۔تا۔بی) [ف۔ا۔ مثن] (۱) جلدی۔ تیزی (۲) اضطراب گھبراہٹ۔

ششال۔ [ن۔ق۔ صفت] بے چین۔ بے قرار۔
ششالنا۔ (ش۔شال۔نا) [ن۔ق۔ مثن] مص [مگسنا۔ اُبھارنا۔ شدہ دینا۔
ششالنگ۔ (ش۔ش۔تا۔نگ) [ن۔ا۔ مذ] ٹخنہ۔
ششہ۔ (ا۔ا۔ مذ) شطاح کا بگڑا ہوا۔ بدکار۔ بد وضع عورت۔
ششہا۔ (ا۔ا۔ مثن) بے حیائی۔ بے شرمی۔ حرام کاری۔ بد وضعی۔
ششتر۔ (ف۔ا۔ مذ) اونٹ۔

ششتریاں۔ (ف۔صفت) اونٹ یا کتے والا۔ ساربان۔
ششتر بے ہمار۔ (ف۔ا۔ صفت) (۱) بے کیل کا اونٹ (۲) آزاد۔ آوارہ۔
ششتر خانہ۔ (ف۔ا۔ صفت) وہ مکان جہاں اونٹ رکھے جائیں۔
ششتر سوار۔ (ف۔ا۔ مذ) ساندھی سوار۔ قاصد۔
ششتر عمرہ۔ (ف۔ا۔ مذ) نازیدیا۔ تجڑہ۔ فضول چونچلے۔
ششتر کیشہ۔ (ف۔ا۔ مذ) وہ شخص جس کا کندہ اور کپٹ بھی نکلے۔ ملی عادت۔ شہنی
ششتر گاؤ۔ (ف۔ا۔ مثن) نرانا۔ ایک چوپا پر جس کی گردن اونٹ کی طرح اور گھریل سے مشابہ ہوتے ہیں۔
ششتر گریبہ۔ (۱) دو موافق چیزیں جن میں سے ایک بلند اور دوسری پست ہو
 (۲) شعر میں ایک کلمہ میں جمع اور مفرد یا تعظیم و تخیل کے الفاظ استعمال کرنا۔

ششتر مرغ۔ (ف۔ا۔ مذ) انزلیقہ کا ایک قد آور پرند جس کی گردن اونٹ کی طرح لمبی ہوتی ہے۔

ششتر نال۔ (ا۔ا۔ مثن) چھوٹی توب جو اونٹ کی پیٹھ پر رکھ کر چلائی جاتے۔
ششتری۔ (ششتر۔ری) [ن۔ق۔ صفت] (۱) اونٹ کے رنگ کا (۲) [ا۔ا۔ مذ] نقارہ جو اونٹ پر رکھا جاتا ہے (۳) نقارہ جو روزہ کھولنے کے وقت بجایا جاتا ہے۔
ششتم۔ (ع۔ا۔ مذ) گالی گلوج۔ دشنام۔

ش۔ج

ششج۔ (ش۔ج) [ع۔صفت] دیر۔ بہادر۔ جڑی۔
ششجاعت۔ (ش۔ج۔اعت) [ع۔ا۔ مثن] بہادری۔ دلیری۔
ششجر۔ (ع۔ا۔ مذ) درخت۔ پیڑ۔ رکھ۔

ششبر۔ (ش۔ب) [ع۔ا۔ مذ] حضرت حسن کا لقب۔

ششبر۔ (ع۔ا۔ مذ) بالشت۔
ششکا۔ (ش۔ب۔کا) [ا۔ا۔ مذ] شکاف جو کپڑے یا دیوار وغیرہ میں ہو۔
ششکہ۔ (ش۔ب۔کہ) [ع۔ا۔ مذ] (۱) کبوتروں کے پیرنے کا جال۔ جالی۔ (۲) [ن] بڑا سوراخ (۳) آنکھ کا پردہ۔
ششبنم۔ (ش۔ب۔نم) [ن۔ق۔ مثن] (۱) رات کی نمی۔ اوس (۲) ایک قنبر کا سفید یا بیک کپڑا۔
ششبنمی۔ (ش۔ب۔ن۔می) [ف۔ا۔ مثن] (۱) اوس سے بچنے کے لیے پتنگ پر تانے کا کپڑا۔ اسمہری۔ (۲) شبنم کے رنگ کا۔

ششبر۔ (ش۔ب۔بر) [ع۔ا۔ مذ] (۱) مانند (۲) تصویر۔ ڈھانچ (۳) مشابہت۔ مطابقت۔

ششبر۔ (ش۔ب۔ش۔بر) [ع۔ا۔ مذ] (۱) شک۔ گمان۔ دہم۔
ششبر کرنا۔ (ا۔ا۔ محاورہ) شک کرنا۔ بدگمانی۔
ششبر گزنا۔ (ا۔ا۔ محاورہ) شک ہونا۔
ششبر مٹانا۔ (ا۔ا۔ محاورہ) شک دور کرنا۔ شہ نہ نکالنا۔
ششبر ہونا۔ (ا۔ا۔ محاورہ) گمان گزنا۔ احتمال ہونا۔

ششبرہ۔ [ن۔صفت] روشن۔ چمکدار (۲) اچھا۔ نیک۔ خالص۔
ششبر۔ (ش۔ب۔بر) [ع۔ا۔ مذ] (۱) نیک (۲) خوبصورت (۳) حسنات امام حسینؑ کا لقب۔

ششبینہ۔ (ش۔ب۔نی۔نہ) [ن۔ق۔ صفت] (۱) مات کا۔ باسی (۲) حافظ قرآن کا رمضان کی کسی ایک رات میں پورا قرآن تراویح میں ختم کرنا۔

ششبیہ۔ (ش۔ب۔بیہ) [ن۔ق۔ صفت] (۱) شکل۔ تصویر۔ صورت (۲) مانند۔ مشابہ۔

ش۔پ

ششپ۔ [ف۔صفت] (۱) جلد شیشاب (۲) [ا۔ا۔ مثن] چھی یا تلوار مارنے کی آواز۔ ٹپ کے ساتھ تالیخ مہل۔

ششپ۔ (Ship) [ا۔ا۔ مذ] بحری جہاز۔

ششپا۔ (ش۔ب۔پا) [ا۔ا۔ مذ] نیراندازوں کا نشانہ باندھنا۔

ششپا ششپ۔ (ش۔ب۔پا۔ششپ) [ف۔ا۔ مثن] (۱) جلد جلد (۲) متواتر تیر چلانے کی آواز۔ متواتر تلوار چلانے کی آواز (۳) [ا۔ا۔ مثن] چھوٹی چھوٹی چھوٹی کی آواز (۴) تیزی سے (۵) پانی میں گھسنے کی آواز۔

ششپر۔ ششپرک۔ ششپرہ۔ (ش۔ب۔پر۔ششپ۔پ۔پرک۔ششپ۔پ۔رہ) [ن۔ا۔ مثن] چمکا ڈھ۔

ششپرہ چشم۔ (ف۔صفت) سورج کی روشنی میں آنکھیں بند رکھنے والا۔ (۲) وہ شخص جو صاف اور واضح چیز کو تعصب کے باعث نہ دیکھ سکے۔

شُد - [ع۔ا۔ذ] ایک حرف کو دو دفعہ پڑھنا۔ تشدید دینا۔ زور دینا۔ سختی۔
(۳) مخالفت پہلوان کا نعرہ۔

شُدوید - [ع۔ا۔ذ] (۱) شان و شوکت۔ دھوم دھام (۲) زور شور۔ طاقت
شُدو - [ش۔د۔اد] (ش۔د۔اد) [ع۔ا۔ذ] قوم عاد کے ایک بادشاہ کا نام جس نے خدائی
کا دعویٰ کیا تھا۔

شُدائد - [ش۔د۔ائ۔د] (ع۔ا۔مٹ۔و۔ذ) سختیاں نکلیں۔
شُدبکر - [ف۔ا۔مٹ] شُدیعنی ہوا اور بڈل بود) تھا۔ کسی کام میں تھوڑی سی مدت
قلیل سی واقفیت۔

شُدت - [ش۔د۔ت] (ع۔ا۔مٹ) سختی۔ تکلیف (۲) زور قوت (۳) زیادتی۔ کثرت (۴) جبر زور
شُدت کا - (۱) تابع ہمل) زور کا۔ بہت سا۔ سخت۔

شُدنی - [ش۔د۔نی] (ف۔ا۔صفت) ہونے والی بات۔ اتفاق بات۔

شُدہ - [ش۔د۔ہ] (ع۔ا۔ع۔م) وہ جھنڈا یا نشان جو محرم میں شہدائے کربلا
کی یاد میں نغریوں کے ساتھ نکالا جاتا ہے۔

شُدہ شدہ - (ف۔تعلق فعل) رفتہ رفتہ۔ آہستہ آہستہ۔

شُدھ - (ہ۔صفت) پاک۔ صاف۔ پوتر۔ خالص۔ چمکیلا۔ سفید
شُدھی - (ہ۔مٹ) وہ تحریک جو شہزاد ہاندا ایک ہندوستان میں
مسلمانوں کو دوبارہ ہندو بنانے کے لیے چلائی تھی۔

شُدید - [ش۔د۔د] (ع۔صفت) سخت۔ مشکل۔ دشوار۔ کٹھن (۲) تکلیف
(۳) بڑا۔ عظیم (۴) زبوں (۵) سخت۔ تیز۔

شُدید العداوت - (ع۔صفت) سخت دشمنی رکھنے والا۔

شُدید العقاب - (ع۔ا۔ذ) سزا میں سخت۔

شُدید العمل - (ع۔ا۔ذ) سختی کرنے والا۔

شجر طور (کلیم) (ع۔ا۔ذ) کوہ طور کا درخت جس پر حضرت موسیٰ نے تجلی
والہی دیکھی تھی۔

شجرہ ممنوعہ - (ع۔ا۔ذ) بہشت کا وہ درخت جس کے قریب جانے سے
حضرت آدم علیہ السلام کو منع کیا گیا تھا۔ (۲) (جی ڈا) وہ چیز
جس سے روک دیا گیا ہو۔

شجرہ - (ش۔ج۔رہ) (ع۔ا۔ذ) (۱) نسب نامہ۔ وہ کاغذ جس پر پورشاہ علی
کی اولاد کا نام نسل بعد نسل درج ہو (۲) وہ نقشہ جس میں گاؤں کے
کھیت دکھائے گئے ہوں۔

شجرہ قند - (ع۔ا۔ذ) (۱) پیروں کا شجرہ اور ٹوپی جو وہ تبرکاً مریوں
کو جیتے ہیں (۲) چیز بست۔ پوریا بندھنا۔

شجرہ قلعہ اٹھانا - (۱۔محاورہ) پوریا بستریا ندھ کر چل دینا۔ اپنا سامان
اٹھا کر چلا جانا۔

شجرہ نسب - نسل اور خاندان کی اولاد کی ترتیب۔ اولاد کا نام نسل
بعد نسل۔

شجیع - (ع۔صفت) دلیر۔ بہادر۔

ش۔ح

شخم - [ع۔ا۔] (۱) چربی (۲) مٹایا۔ ذریہ۔ جمع۔ شخم
شخیم - (ش۔خ۔نہ) (ع۔ا۔ذ) محافظ شہر کو نوال۔ کھیت کا ٹکڑا۔
شخیم - (ش۔خیم) (ع۔صفت) موٹا۔ ذریہ۔ جیسے لچیم و شخیم۔

ش۔ذ

شذرہ - [ش۔ذ۔رہ] (ع۔ا۔ذ) (۱) برائے منہ شہر بکھری ہوئی چیز۔
(۲) اخبار میں ایڈیٹر کا کسی واقع پر مختصر تبصرہ۔ جمع: شذرات۔

ش۔ر

شمر - [ع۔ا۔] (۱) بڑی۔ برائی (۲) جھگڑا۔ فساد۔ خرابی۔
شمر اٹھانا یا اٹھنا - (۱) محاورہ) جھگڑا برپا کرنا۔ فساد کی ابتدا کرنا
شمر اڑ جانا۔ جھگڑا مٹ جانا۔

شمر بگنہ - (پسند) (ف۔صفت) شریر۔ مفسد۔

شمر پڑھانا - (۱) محاورہ) فساد کو ہوا دینا۔

شمر - (ش۔ر) (ع۔ا۔ذ) خرید و فروخت۔ آڈو میں بیع و شراہ میں استعمال ہوتا ہے

شمراب - (ش۔ر) (ع۔ا۔مٹ) (۱) رقیق چیز جو پی جائے (۲)
نشرہ دار عرق۔ دارو۔

شخص - [ع۔ا۔ذ] (۱) آدمی۔ بشر (۲) آدمی کا جسم۔ انسان۔ بدن۔

شخص ثالث - (ف۔ا۔ذ) وہ شخص جو رقیقین میں فیصلہ کرتے۔ سربراہ۔

شخص غیر - (ف۔ا۔ذ) اجنبی آدمی۔

شخص واحد - (ف۔ا۔ذ) اکیلا آدمی۔ تنہا آدمی۔

شخصی - (ش۔خ۔صی) (ع۔صفت) (۱) ایک آدمی کے متعلق۔ (۲) ذاتی۔

شخصی حکومت - (ع۔ا۔مٹ) ایک شخص کی حکومت۔ آمریت۔

شخصیت - (ش۔خ۔صی۔یت) (ع۔ا۔مٹ) (۱) شخص ہونے کی خصوصیت
ذات (۲) درجہ عزت (۳) شیخی۔ نفور۔

شخصیت بگھارنا (جنانا) (۱) محاورہ) شیخی مارنا۔ اتزانا۔

ش۔د

شُد - (ف) رفت گزشت۔ گزرا ہوا (۲) کسی کام کا آغاز یا ابتدا۔

شراب لوط - (ش - را - اط) [ع - امث] شرابیں - ذمہ داریاں - شرط کی جمع
شراب لوط تہیدی - (ع - ف - ت - امث) ابتدائی تڑپیں -
شراب لوط - (ع - امث - مذ) شریعت کی جمع دیکھیے شریعت -
شراب لہین - (ع - امث) شرابوں کی جمع دیکھیے شرابوں -
شراب - (ع - امث) پینا - پینے کی چیز -
شراب الیہود - (ع - امث) پوشیدہ شراب پینا -
شرابیت - (شرابیت) [ع - امث - مذ] (۱) وہ مقدار جو ایک دفعہ پی جائے -
 (۲) فندی میں پکا ہوا عرق کسی پھل، پھول یا دوا کا - (۳) قند یا مہکی پانی میں گھلی ہوئی -
شرابیت پلانی - (۱) امث (۱) وہ نقدی جو شربت پینے پر دھوا دوس کے رشتہ دار تھا ان میں دالتے ہیں (۲) وہ نیک جو دھوا یا دھن کی جانب سے نائی کو دیا جائے -
شرابیت دیدار - (ف - امث) دیدار کا شربت سے استعارہ ہے -
شرابیت کے سببے - (۱) بڑھاپا دینا - (۲) محارہ غریبوں کی طرح صرف شربت پلانا کھانا کر دینا -
شرابیت کے سے گھونٹ پینا - (۱) محارہ کسی تلخ بات کو خوشی سے برداشت کرنا سختی اٹھانا -
شرابیت وصل - (ف - امث) ہم بستری - وصل کا شربت سے استعارہ ہے -
شرابی - (شرابیت) [ع - امث] (۱) زوردار نوجوانی رنگ سے ملتا ہوا رنگ (۲) ایک قسم کا بیٹھا میوہ - (۳) ایک قسم کا گیتھ - (۴) ایک قسم کا بڑا نالہ (۵) شراب کا پیا ہوا جو ایک ہی دفعہ پی لیا جائے (۶) شربت کا (۱) شربت کے رنگ کا (۲) شربت کا یا شربت سے متعلق (۳) رس دار -
شرابہ - (شرابہ) [ع - امث] ایک قسم کی چھوٹی مشک (۳) تھیلہ (۳) نالہ پانی کی وہ مقدار جو سیرابی کے پینے کا کافی ہو -
شرتا دا - (شرتا دا) [ع - امث] ایک قسم کی کھجور -
شرح - (ع - امث) (۱) تفسیر - کھول کر کہنا - (۲) شرح - بھاؤ - شرح آبپاشی - (ع - ف - امث) شہر کے پانی کا خرچ - آبپاشی - شرح بندی - (ع - ف - امث) بونوں کا نقشہ شرح نامہ - شرح مقرر کرنا - شرح چڑھانا (کرنا) کتاب کی شرح لکھنا - حاشیہ چڑھانا - شرح ذیل - (ع - امث) بیچے گھٹی ہوئی تفصیل - شرح سٹود - (ع - ف - امث) سٹود کا بھاؤ - شرح لگان - (۱) امث) لگان یا شرح کا خرچ - شرح وسط - فصاحت و تفصیل کھول کر شرح دہا - (ک - امث) اشتیاق - آرزو - (۲) عقیدت - دفا داری - شرحہ - (ع - امث) کھوڑے آدمیوں کی جماعت (۲) پھول وغیرہ کا گٹھا - فاش -
شرار - (ش - ارد) [ع - امث] آگ کی چنگاری - (۲) کینہ -
شرار بار - شرارین - شرار فشان - (ف - ص) چنگاریاں بھرنے والا (۲) چنگاریاں اڑانے والا (۳) دہن سے آگ کی چنگاریاں نکلنے والی ہیں -
 کا کیفیت درج ہو -

شراب ازخانی - (ع - امث) صغ) مرغ رنگ کی شراب -
شراب اڑانا - (۱) محارہ) شراب کا خوب پیا جانا -
شراب بند - (ف - امث) تلخ و تیز شراب -
شراب کا ڈوبلینا - (۱) محارہ) چند آدمیوں کا اکٹھا بیٹھ کر شراب پینا -
شراب خانہ - (ع - ف - امث) وہ جگہ جہاں شراب بنے یا پکے -
شراب خانہ خراب - (۱) مقولہ) شراب کی خدمت میں کہا جاتا ہے کہ اس کے پینے والے تباہ و برباد ہو جاتے ہیں -
شراب (خوری) خوری - شراب پینا سے نوشی -
شراب دو آتشہ - (ع - امث) دومرتبہ کشید کی ہوئی شراب - تیز شراب -
شراب طہور - شراباً طہورہ - (ع - امث) پاک شراب جو بہشت میں ملے گی -
شراب کشید کرنا - شراب کھینچنا - (۱) محارہ) شراب بھیکے کے ذریعے تیار ہونا -
شراب بنانا -
شراب کے نشے میں چور ہونا - (۱) محارہ) سخت بدست ہونا -
شراب مقلط - (۱) محارہ) ٹھکانے ہوئی شراب -
شرابین - (۱) امث) شراب پینے والی عورت -
شراب ناب - (ع - امث) خالص شراب -
شراب اور - (ش - را - اور) [ع - امث] تیز تر بہت بھیکا ہوا -
شرابی - (ش - ما - بی) [ف - ص) شراب پینے والا - سے نوش -
شراب - (۵ - امث) بدوفا - سراپ -
شرابا - (شرابا) [ع - امث] (۱) زور سے لینے برسنے کی آواز (۲) زانا زور کی آواز -
شرادھ - (ش - را - دھ) [ع - امث] گریہ کر مہمروں کے نام پر برہمنوں کو پوری کچھ ہی کھلانا -
شرار - (ش - را - ار) [ع - امث] آگ کا تینکا - چنگاری -
شرار جستمہ - (ف - امث) آگ کی ہوئی چنگاری -
شرارت - (ش - را - رت) [ع - امث] (۱) بدی - ایذا رسانی - مبرائی - خرابی - بدینی (۲) شوخی - بیباکی - بد بانی (۳) شیطنت - بد ذاتی -
شرارت سوجھنا - (۱) محارہ) کوئی ایسی بات سوجھنا جس سے جھگڑا پیدا ہو جائے -
شرارتی - (ش - را - تی) [ف - اور - ص) شریر -
شرارتا - (ع - متعلق فعل) شرارت سے -
شرارے نکلنا - (۱) محارہ) (۱) چنگاریاں نکلنا (۲) آنکھوں سے سخت غصے اور تاراضی کا اظہار ہونا -
شرافت - (ش - را - فت) [ع - امث] (۱) بزرگی - اصالت - بھلبستی (۲) نجابت - عالی خانہ دانی -
شرافت پناہ - (ع - ف - ص) برے درجے کا شریف -
شرارکت - (ش - را - کت) [ع - امث] ساجھا جھدری -
شرارکت نامہ - (ف - امث) (۱) شکرکت نامہ - وہ دستاویز جس میں ساجھے کی کیفیت درج ہو -

شہزادہ - [ق-۱- مذ] شیر بہرہ مندوا۔

شہر - [ع- صفت] سازگار۔ معاون۔ موافق (۲) پولیس

شہر - [ع- ۱- مش] اقرار۔ عہد۔ تول قرار (۲) وہ چیز جس پر کسی بات کا انحصار ہو۔ (۳) قید۔ پابندی (۴) باری (۵) لازم ضروری۔

شہر باندھنا۔ شہر بنانا۔ (۱- محاورہ) بازی لگانا (۲) عہد کرنا (۳) ذمہ لیا۔

شہر بجالانا۔ (۱- محاورہ) شہر پوری کرنا۔ عہد و پیمان پورا کرنا وعدہ وفا کرنا

شہر بٹھارنا۔ (۱- محاورہ) آپس میں عہد و پیمان کرنا۔

شہر خدمت بجالانا۔ (۱- محاورہ) ہمدردی کے لازم پورے کرنا۔ اچھی طرح خدمت انجام دینا۔

شہر رنفت۔ (ع- ۱- مش) وہ فعل جو رفیق ہونے کے لیے کرنا لازمی ہو۔

شہر لگانا۔ (۱- محاورہ) (۱) بازی دینا (۲) قید لگانا (۳) عہد و پیمان کرنا

شہر ہونا۔ (۱) ایص مرکب عہد ہونا۔

شہرٹی۔ (شہرٹی) [ع- صفت] (۱) جنرل کے بیٹے تک (۲) کسی شہر پر مشروط۔

شہر طیبہ۔ (شہرٹی) [ع- صفت] افزاری۔ شہرٹی۔ وہ جملہ جو شہر اور جزا سے من کر پڑا ہو۔

شہر طیبہ سے۔ (۱- محاورہ) اس شہر پر عہد یا اقرار سے۔

شہر - [ع- ۱- مش] (۱) سیدھا راستہ (۲) قانون محمدی جو قرآن کے مطابق ہے (۳) آئین۔ مذہب۔

شہر پہننا۔ (۱- محاورہ) دین اسلام کے قانون پر عمل کرنا۔

شہر کے خلاف کرنا۔ (۱- محاورہ) قانون اسلام کے خلاف کوئی بات کرنا۔

شہر محمدی۔ (۱- محاورہ) قانون محمدی۔ دین اسلام کا طریقہ۔

شہر محمدی نکاح بڑھنا۔ (۱- محاورہ) قانون اسلام کے مطابق سادہ نکاح کرنا۔

شہر میں رخنہ ڈالنا۔ (۱- محاورہ) مذہب میں کوئی نئی بات داخل کر کے مفلح ہونا۔

شہر میں شرم کیا۔ (میشل) جائز بات کرنے میں شرم نہیں کرنی چاہئے۔

شہر عا۔ (ع- تابع فعل) از روئے شہر۔ قانون اسلام کے مطابق۔

شہر عا و عرفا۔ [ع] قاعدے قانون اور آج کی رو سے

شہرعی۔ (شہرعی) [ع- صفت] شہر کے مطابق۔ قانون اسلام کے مطابق۔

شہرعی پاجامہ۔ ٹخنوں سے اوپر یا جامہ۔

شہرعی دارھی۔ (۱- مش) شہر کے مطابق دارھی جو ایک مُشت اور دو انگل کے برابر ہوتی ہے۔

شہرعی قسم۔ (ع- ۱- مش) قسم جو ضابطہ قانون اسلام کے موافق ہو (۲) الٹو قسم

شہر خا۔ (ع- ۱- مذ) وہ گھوڑا جو مرتا سمر باہمی گم کا ہو (۲) گھوڑے کی ایل اور دم کے بال زرد رنگ کے ہوں۔

شہر ف۔ (ش- رفت) [ع- ۱- مذ] (۱) بزرگی۔ بلندی (۲) بڑی توجیح

فوقیت (۳) عزت۔ فخر۔ افتخار (۴) کسی ستارے کا اپنے آبی برج میں آنا۔

شہر ف باریابی۔ (ع- ۱- مذ) خدمت میں حاضر ہونے کی عزت۔

شہر ف پانا۔ (۱- محاورہ) عزت پانا۔ فخر حاصل کرنا۔

شہر ف خدمت (ن- ۱- ص) ملازم ہونے کی عزت۔

شہر ف زیارت۔ (ع- ۱- مذ) ملاقات کی عزت

شہر ف عدالت۔ (ع- ۱- مذ) ناظر۔

شہر ف لے جانا۔ (۱- محاورہ) سبقت لے جانا۔

شہر ف نیاز۔ (ع- ۱- مذ) دیکھنے یاٹنے کی عزت۔

شہر ف یاب۔ (ع- ۱- مذ) صفت عزت پانے والا۔

شہر ف ہونا۔ (۱- محاورہ) بزرگی یا فخر حاصل ہونا۔ عزت ملنا۔

شہر ف۔ (ش- رنا) [ع- ۱- مذ] شہر ف کی جمع۔ مذہب لوگ۔ شہر ف لوگ۔

شہر ف۔ [ع- ۱- مذ] مشرق۔ پورب۔ وہ سمت جہر سے سوچ نکلتا ہے۔

شہر ف سے غرب تک۔ (ع- ۱- مذ) مشرق سے مغرب تک۔ پورب سے پچھم تک۔ پوری دنیا۔

شہر ف۔ (شہر ف) [ف- صفت] مشرق سے نسبت رکھنے والا۔ مشرق کا۔

شہر ف علوم۔ وہ علوم جو ایشیا سے نکلے ہیں (۲) وہ علوم جو مشرقی زبانوں میں پڑھائے جائیں۔

شہر ف۔ (ع- ۱- مذ) خدا کے ساتھ کسی اور شہر تک جانا (۲) گھر بنت پرستی۔

شہر ف جلی۔ (ع- ۱- مذ) ظاہر و صریح شہر ف جیسے بنت پرستی۔

شہر ف خفی۔ (ع- ۱- مذ) پوشیدہ شہر ف۔ خدا کو چھوڑ کر انسان پر بھروسہ کرنا۔

شہر ف۔ (ش- ر- کا) [ع- ۱- مذ] شہر ف کی جمع۔ ساجھی۔ ساجھی۔

شہر ف۔ (شہر ف) [ع- ۱- مش] (۱) شمال ہونا۔ شمولیت (۲) ساجھا۔ شراکت۔

شہر ف۔ [ف- ۱- مش] (۱) جیا۔ لاج۔ حجاب (۲) ننگ عار (۳) ہند مت

شہر ف۔ شہر مندگی (۴) غیرت۔ عزت۔ حرمت (۵) خیال۔ پاس (۶) شہر مندہ۔

شہر ف آلود (آلودہ) [ف- صفت] شہر ف نہیں۔ نام۔

شہر ف آنا۔ (۱- محاورہ) جیا آنا۔ غیرت آنا۔

شہر ف بھی نہیں آتی۔ (۱- محاورہ) شہر ف دلنے کے لیے کہتے ہیں شہر مندہ ہونا چاہئے تاہل ہونا چاہئے

شہر ف چہ کتنی سست کہ پیش مراد آید۔ (ف- مشل) بے جیا کے متعلق کسا جاتا ہے۔

شہر ف حضور۔ (ف- ۱- مذ) آنکھ کی شہر ف رکھنے والا۔ سلسلے لحاظ کرنے والا آنکھ کی شہر ف۔

شہر ف دلانا۔ (۱- محاورہ) شہر مندہ کرنا۔

شہر ف رکھنا۔ (۱- محاورہ) آبرور رکھنا۔ عزت بچانا۔

شہر ف رہ جانا۔ (۱- محاورہ) عزت و آبرو میں ذوق نہ آنا عزت پر چ جانا۔ بات رہ جانا۔

شہر ف سار۔ (ف- صفت) شہر مندہ۔ نام۔

شہر ف ساری۔ (ف- ۱- مش) شہر مندگی۔ ندامت۔ خجالت۔

شہر ف سے پانی پانی ہونا۔ (۱- محاورہ) شہر مندگی سے پسینہ پسینہ ہونا۔ نہایت شہر مندہ ہونا۔

شہر ف سے ڈوب مرنا۔ (۱- محاورہ) شہر مندگی سے پانی میں ڈوب کر جان بچا۔ سخت شہر مندہ ہونا۔

شرعیّت - (ش۔ ری۔ عت) [ع۔ ا۔ مٹ] (۱) مذہبی قانون یا قانون الہی (۲) قانون (۳) طریقہ جمع مدطابق۔
شرعیّت کا پابند - (ع۔ ا۔ مذ) شرعیّت کے احکام میں عمل کرنے والا۔
شریف - (ش۔ رفیت) [ع۔ صف] (۱) بزرگ۔ عالی خاندان (۲) پھلانا اسمیل۔ ہند۔ کاملہ تعظیم جو مشہور اور مقدس مقامات کے لیے مستعمل ہوتا ہے جیسے شرفیور شریف۔
شریف زادہ - (ع۔ ا۔ مذ) اشراف کا بیٹا۔ ہند۔
شریف الطریقین - (ع۔ صف) مال باپ دونوں کی طرف سے شریف۔
شریف النفس - (ع۔ صف) شریف طبع۔ نیک خو۔
شریف و زلیل - ادنیٰ اعلیٰ نیک بد۔ ہر قسم کے لوگ۔
شریفیہ - (ش۔ ری۔ مذ) [ع۔ صف] شریف عورت (ا۔ ا۔ مذ) ایک قسم کا پھل۔ سینا پھل۔
شریک - (ش۔ ریک) [ع۔ صف] شرکت رکھنے والا۔ رفیق (۲) شامل۔ ملا ہوا۔ یحیٰ (۳) حصہ دار۔ ساھی (۴) ساتھی (۵) رشتہ دار۔
شریک حیات - (سج و راحت) [ع۔ صف] زندگی کے مکھ کو میں ساتھ کٹنا۔ کیا میں یاری شریک الزلے۔ (ف۔ ا۔ مٹ) رائے سے اتفاق کرنے والا۔ متفق الزلے۔
شریک جرم - (ف۔ ا۔ صف) جرم میں شامل۔
شریک حال - (ا۔ مذ) رنج و راحت کا ساتھی۔ دکھ سکھ کا ساتھی۔
شریک رنج و راحت - (ا۔ مقولہ) دکھ سکھ کا ساتھی۔
شریک شگمی - (ا۔ مذ) وہ شخص جو کا نشتکاری میں شریک ہو اور جس کے نام زیندار کی طرف سے پٹ ہو۔
شریک کرنا - (مص۔ مرکب) ساھی بنانا۔ شامل کرنا۔ حصہ دار بنانا۔
شریک ہونا - (ا۔ محاورہ) ملنا۔ ساتھ ہونا (۲) ساھی ہونا۔

شرم سے گنتا (گھڑی ہو جانا۔ گر جانا) - (ا۔ محاورہ) بے حد شرمندہ ہونا (۲) شرم سے منہ پھیلانے کو جی جاہنا۔
شرم کا مقام ہے - (ا۔ محاورہ) عزت کی بات ہے۔
شرم کو نا - (ا۔ محاورہ) جیا کرنا۔ شرمندہ ہونا۔ لحاظ کرنا۔
شرم کی بات - (ا۔ مٹ) غیرت کی بات۔ افسوس کی بات۔
شرم کے بارے - (ا۔ متعلق) شرم کی وجہ سے غیرت سے۔
شرم گاہ - (ف۔ ا۔ مٹ) عورت کی جائے شرم۔ اندام نہانی انسان کے بول بڑی جگہ۔
شرمگین - (ف۔ صف) شرمندہ۔ مجمل۔
شرمناک - (ف۔ صف) قابل شرم۔
شرم دانے کے پیوستے گرم - (ا۔ مٹ) شرم کرنے والا محروم ہی رہتا ہے۔
شرم ہی شرم میں کام تمام ہوا - (ا۔ مٹ) لحاظ یا مروت میں نقصان اٹھایا (کام نہ ہو گیا)۔
شرما شرمی - [ا۔ مٹ] شرم و لحاظ کے دباؤ میں مروت میں طوعاً کرہاً۔
شرمانا - (شر۔ مانا) [ا۔ مٹ] (۱) جانا (۲) شرمندہ ہونا۔ نام نہان ہونا۔ (۳) شرمندہ کرنا۔ ذلیل کرنا۔
شرماؤ و شرماؤ - (شر۔ ما۔ او۔ شر۔ ما۔ او) [ا۔ مٹ] شرمیلا۔ جیادار۔
شرم و جیا کا دامن جاب ہونا - (ا۔ محاورہ) بے شرم و بے جیا ہو جانا۔
شرمندگی - (شر۔ من۔ دگی) [ف۔ ا۔ مٹ] شرم۔ ندامت۔ نجالت۔
شرمندگی اٹھانا - (ا۔ محاورہ) شرمندہ ہونا۔ خفت اٹھانا۔ خفیف ہونا۔
شرمندہ - (شر۔ من۔ دہ) [ف۔ صف] (۱) شرمناز نام۔ (۲) ممنون شرمندہ احسان۔ (منت) [ف۔ صف] احسان مند۔ ممنون احسان شرمندہ تعبیر۔ (ف۔ صف) جس کی کوئی تعبیر ہو۔
شرمندہ معنی - (ف۔ صف) جس کے معنی ہوں۔ یا معنی۔
شرمیلا - (شر۔ می۔ لا) [ا۔ مٹ] شرم کرنے والا۔ جیادار۔
شرون - (س۔ ا۔ مذ) پناہ۔ بچاؤ۔ حفاظت۔ امن کی جگہ۔
شروا پتی - (ا۔ ۵) وجود میں چھوڑ کر آیا ہو۔ ہماجر۔
شروا - (شر۔ وا) [ا۔ ا۔ مذ] شوربا۔
شروا پھلکا - (ا۔ مذ) شوربا اور پھلکا (۲) ہلکی غذا۔
شروا چٹ - (ا۔ صف) (۱) بیوں تھوڑے لالچی (۲) ابن الوقت۔ زمانہ ساز۔
شروا - (ش۔ رو۔ ر) [ع۔ ا۔ مذ] شریک جمع۔ ہدایاں۔
شروط - (ع) شرط کی جمع۔ عہد۔ پیمانہ۔ اقرار۔
شروع - (ش۔ رو۔ ع) [ع۔ ا۔ مذ] آغاز۔ ابتدا۔ پہل۔ اٹھانا۔
شروعات - (ش۔ رو۔ عات) [ا۔ مٹ] شروع کی جمع۔ مکرانہ میں آمد۔
شروع - (ش۔ رو۔ ع) [ع۔ ا۔ مذ] آغاز۔
شروسی - (شر۔ سی) [ا۔ مٹ] فساد۔ شریہ (۲) بد۔
شروسی - (ش۔ ری) [س۔ ا۔ مذ] جناب۔ صاحب۔ مسٹر۔
شرویان - (شر۔ یان) [ع۔ ا۔ مٹ] چھوٹی چھوٹی ریں جن کی کھاف کھاف خون گردش کرتا ہے۔ جمع شرویان۔
شرویر - (ش۔ ریر) [ع۔ صف] (۱) خزارنی۔ (۲) مبرا۔ بد ذات۔
شرویر - (ش۔ ریر) [س۔ ا۔ مذ] بدن جسم۔

ش۔ ر

شرباب شراب - (ا۔ مٹ) کوڑے مارنے کی آواز۔
شرباب - (ا۔ مذ) کھونٹ بھرنا کسی سیال کو آواز کے ساتھ کھینچ کر پینا۔

شربت - (ا۔ مٹ) (۱) نشاء۔ سیرہ۔ ہرٹ (۲) پھل پکڑنے کا کانا بنی (۳) انگشتانہ۔ فارسی میں بفتح آؤل مستعمل ہے۔
شربت باندھنا - (ا۔ محاورہ) نشاء لگانا۔ سیرہ باندھنا۔
شربت - (ف۔ ا۔ مذ) دھونے کا عمل۔
شربتگی - (ش۔ س۔ ت۔ گی) [ا۔ ا۔ مٹ] صفائی۔ دھلا ہوا ہونا۔ (۲) الفاظ کی سلاست۔
شربت و شرو - [ف۔ ا۔ مٹ] نہانا دھونا۔ دھو کر صاف کرنا۔

ش۔ س

شست - [ف۔ ا۔ مٹ] (۱) نشاء۔ سیرہ۔ ہرٹ (۲) پھل پکڑنے کا کانا بنی (۳) انگشتانہ۔ فارسی میں بفتح آؤل مستعمل ہے۔
شست باندھنا - (ا۔ محاورہ) نشاء لگانا۔ سیرہ باندھنا۔
شست - (ف۔ ا۔ مذ) دھونے کا عمل۔
شستگی - (ش۔ س۔ ت۔ گی) [ا۔ ا۔ مٹ] صفائی۔ دھلا ہوا ہونا۔ (۲) الفاظ کی سلاست۔
شست و شرو - [ف۔ ا۔ مٹ] نہانا دھونا۔ دھو کر صاف کرنا۔

شستہ - (شس۔ شستہ) [ف۔ صفت] صاف کیا ہوا (۲) پاک خالص
(۳) دھویا ہوا۔
شستہ تقریر - (زبان۔ گفتگو) [ف۔ ۱۔ مٹ] سلیس اور صاف
بات چیت۔
شستہ و رفتہ - (ف۔ صفت) مٹھا ہوا۔ پاکیزہ۔
شستہ زبان - (ف۔ ۱۔ مذ) جس کی زبان سلیس ہو۔

ش-ش

شش - (ف۔ صفت) چھ۔
شش پہلو (گوشتہ) [ف۔ صفت] چھ کونہ
شش چہمت - (ف۔ صفت) چھ اطراف شمال، جنوب، مشرق، مغرب
اوپر نیچے۔ تمام عالم۔ پوری کائنات۔
شش دانگ - چھ طرفیں۔ تمام دنیا۔
شش روز - (ف۔ ۱۔ مذ) دنیا کی پیدائش کے چھ دن۔
شش عید (ششہ عید کے روزے) [ف۔ ۱۔ مذ] عید الفطر کے
بعد کے چھ روزے۔
ششدر - (۱) حیران پریشان بہکا ہوا (۲) چھ دروازے کا مکان
ششتم - (ف۔ مٹ) چھٹا۔
شش ماہی - (ف۔ ۱۔ مٹ) چھ ماہی۔ نصف سال۔
شش و پنج - (ف۔ ۱۔ مذ) سوچ بچار۔ فکر و اندیشہ۔ گھبراہٹ۔
شش - (ف۔ ۱۔ مذ) پھیپھاڑا۔
شش - (۱۔ مذ) وہ آواز جس کے ذریعے کتے سے کسی پر حملہ کرایا جاتا ہے
ششکار - (ششکار)۔ (ششس کار) [۱۔ ۵۔ مٹ] شش کد کد
کتنے کو کسی شکار پر دوڑانا۔
ششکارنا - (ششش۔ کارنا) [۱۔ ۵۔ مض] (۱) شکار پر دوڑانا۔
(۲) شش شش کرنا۔

ش-ع

شعار - (ش۔ عار) [ع۔ ۱۔ مذ] (۱) جین۔ طریقہ۔ طور۔ مرکبات کے آخرین ہی
آہ ہے جیسے ستم شعار و فاشعار (۲) برون سے لگا ہوا کپڑا۔
شعاع - (ش۔ عاع) [ع۔ ۱۔ مٹ] (۱) کرن (۲) روشنی۔ چمک۔
شعاع ریزی - (ع۔ ف۔ ۱۔ مٹ) (۱) چمکانا۔ درخشاں کرنا۔
روشنی ڈالنا۔
شعاعی - (ش۔ عاعی) [ع۔ صفت] کرن سے متعلق۔ روشن۔ چمکیلا۔
شعائر - (ش۔ عا۔ ار) [ع۔ ۱۔ مذ] (۱) قربانیاں (۲) نشانیاں۔ رسوم
(۳) فرائض اور عبادت۔
شعائرچ - (ع۔ ۱۔ مذ) حج کے فرائض۔
شعب - (ع۔ ۱۔ مذ) پہاڑی ٹرک۔ درہ (۲) نیچی زمین (۳) خاندان۔ قبیلہ۔
شعبان - (شع۔ بان) [ع۔ ۱۔ مذ] (۱) مسلمانوں کا آٹھواں قمری مہینہ۔
(۲) شب برات کا مہینہ۔
شعبدہ - (شع۔ ب۔ دہ) [ع۔ ۱۔ مذ] (۱) جادو سے متعلق ہنر یا کھیل۔
(۲) نظر بندی۔ دھوکا۔ فریب (۳) چالاک کا مظاہرہ۔
شعبدہ باز - شعبدہ کر۔ (ف۔ ۱۔ مذ) وہ بازی گر جو حیرت انگیز کرتب دکھائے
بھانپتی (۲) دھوکے باز (۳) مداری۔
شعبدہ بازی - (ف۔ ۱۔ مٹ) (۱) نظر بندی (۲) جادوگری (۳)
دغا بازی۔ عیباری۔ چالاکا۔
شعبہ - (شع۔ بہ) [ع۔ ۱۔ مذ] (۱) ٹکڑا۔ حصہ۔ شاخ (۲) وہ نہر جو کسی
نہر سے نکالی جائے۔ (۳) محکمہ۔
شعہ - (ع۔ ۱۔ مذ) (۱) جاننا۔ کسی باریک چیز کا جاننا۔ (۲) موزوں مفقی کلام

ش-ص

شصت - [ف۔ ۱۔ مذ] ساٹھ۔ ۶۰

ش-ط

شظ - [ع۔ ۱۔ مذ] (۱) دریا۔ ندی۔ (۲) دریا کا کنارہ (۳) اونٹ کے
کودان کی ایک طرت۔
شظ العرب - (ع۔ مذ) عراق کا دریا جو جلاؤ فرات کے ملنے سے بنتا ہے

شعور - (ش - عور) [ع - ۱ - مذ] (۱) عقل سلیقہ (۲) تیز بوجھان (۳) سمجھ عقل - دانش - شعور کمرٹا - (۱) محاورہ) ہوش سنبھالنا ہوشیار ہونا (۲) تیز سنبھالنا - شعیب - (ش - عیب) [ع - ۱ - مذ] ایک مشہور شعیب - شعیب - (ش - عیر) [ع - ۱ - مذ] جو -

ش - غ

شغال - (ش - غال) [ف - ۱ - مذ] گیدڑ - شغب - (ش - غب) [ع - ۱ - مذ] شور - غل - شغف - (ش - غف) [ع - ۱ - مذ] بے حرمت - بے اتہار غبت - کمال دیکھی - شغل نیشنل - [ع - ۱ - مذ] (۱) کام دھندا (۲) مشغلہ - پیشہ (۳) تفریح طبع (۴) خدا کا دھیان - شغل کرنا - (۱) محاورہ) (۱) کسی کام میں مشغول ہونا - کھانے پینے بھٹھہ پینے وغیرہ کے لیے مستعمل ہے -

ش - ف

شفا - (ع - ۱ - مش) کنارہ - ساحل - شفا - (ش - فا) [ع - ۱ - مش] صحت - تندرستی - بیماری سے صحت - شفا بخش - (ع - ۱ - ف) [ع - ۱ - مش] شفا دینے والا - اچھا کرنے والا - شفا یانا - (مص - رب) بیماری سے صحت پانا - معنیاب ہونا - شفا خانہ - (ع - ۱ - ف) [ع - ۱ - مذ] بیماروں کے علاج کی جگہ - ہسپتال - شفا یاب ہونا - (۱) محاورہ) صحت ہونا - تندرست ہونا - شفا شرف - (ش - ف) [ع - ۱ - مذ] پے در پے (۲) تیز کی سپیم آواز - شفا عت - (ش - فاعت) [ع - ۱ - مش] گناہوں کی معافی کی سفارش - شفا عت کنندہ - شفا عت گر - (ع - ۱ - ف) [ع - ۱ - مش] شفا عت کرنے والا - شفا ف - (ش - ف) [ع - ۱ - مش] نہایت صاف جہیں آریا نظر آئے - شفا لو - (ش - ف) [ع - ۱ - مذ] ایک قسم کا بڑا آٹو - شفتل - (ش - ف) [ع - ۱ - مذ] [ع - ۱ - مش] بدکار عورت - (۲) ایک قسم کا چارہ جسے شمالا بھی کہتے ہیں - شفت - (Shift) [ع - ۱ - مش] [مزدوروں کی] بدل چوکی - شفتہ - (ش - ف) [ع - ۱ - مذ] گھریا زمین کی ہمسائی جس کا بہت بڑا حق ہے - شفق - (ش - ف) [ع - ۱ - مش] [ع - ۱ - مش] سورتی جو طلوع آفتاب سے پیشتر صبح کو اور غروب آفتاب کے بعد شام کو نمودار ہوتی ہے - شفق چھوٹا - (۱) محاورہ) شفق کھلنا شفق کا نمودار ہونا -

نظم - بیت - گیت - (۳) سخن موزوں (۴) بال - مو شعریانا - (۱) محاورہ) (۱) شعر کہنا شعر موزوں کرنا (۲) شعرین اصلاح کرنا - شعر - (ع - ۱ - ف) [ع - ۱ - مذ] پاکیزہ - پُر لطف شعر - شعریاتی - (ع - ۱ - ف) [ع - ۱ - مذ] شاعر ہونا - شعر ڈھل جانا - (۱) محاورہ) شعر کے ساتھ موزوں ہوجانا - شعر فہمی - (عالم بالا معلوم شد - (ف - ن) [ع - ۱ - مذ] شعر شناسی یا نافی پر ایک طنز کہ ادراکوں کے شعر سمجھنے کا حال معلوم ہو گیا - شعر گو - (ع - ۱ - ف) [ع - ۱ - مذ] شاعر کے والد شاعر - شعر گوئی - (ع - ۱ - ف) [ع - ۱ - مذ] شاعری - شعر کہنا - شعر لڑنا - (۱) محاورہ) دو شاعروں کے اشعار کا مضمون ایک ہونا - شعر ممدوسہ کہ بڑا (شغل) میرا شعر میں لکھا گیا اس میں تیرے بولنے پر جب کوئی چیز ندمتوں کا تھ رہی ہے - شعرو سخن - (ف - ۱) [ع - ۱ - مذ] شاعری شاعری کا مذاق - شعرا - (ش - ع - را) [ع - ۱ - مذ] شاعری جمع - شعر کہنے والے - شعریت - (ش - ع - ری) [ع - ۱ - مذ] شاعرین - شعر کا حسن - شعر کی روح - (۲) حسن و رعنائی - دلکشی - کمال جاہ بیت - شعشعر - (ش - ع - ع) [ع - ۱ - مذ] [ع - ۱ - مذ] آفتاب کی روشنی (۲) حرف کا آخری حصہ (۳) افواہ - چھوٹی رپورٹ - شعلہ - (ش - لہ) [ع - ۱ - مذ] (۱) بدشتی چمک (۲) آگ کی پیٹ - کو - شعلہ شام - (ع - ۱ - ف) [ع - ۱ - مذ] چلنے والا (۲) مازا شراب پینے والا - شعلہ آواز - (ع - ۱ - ف) [ع - ۱ - مذ] آواز کی تیزی جو دل پر اثر کرے پرتوں آواز - شعلہ برق - بجلی کی چمک - وہ شعلہ جو بجلی چمکنے کے وقت نظر آتا ہے - شعلہ آفتاب - (۱) آگ کی پیٹ نکلنا - (۲) غصہ آنا (۳) جلن ہونا - شعلہ آفتاب - شعلہ فشاں - شعلہ بار - (ع - ۱ - ف) [ع - ۱ - مذ] شعلہ برسانے والا جس سے شعلے نکلیں - شعلہ بھبھوکا ہونا - (۱) محاورہ) کمال غضبناک ہونا - غصے میں سرخ ہونا - شعلہ بھڑکنا - (۱) محاورہ) شعلہ کا تیز ہونا - (۲) سدا کی آگ بھڑک اٹھنا - شعلہ جام - (۱) کنایتاً شراب - شعلہ جوالا - (ع - ۱ - مذ) گڑا گرد پھرنے والا شعلہ (۲) جلتی ہوئی بیٹی کا چکر - (۳) معشوق - شعلہ جو - (ع - ۱ - ف) [ع - ۱ - مذ] تیز مزاج - تند خو (۲) محبوب - شعلہ رُخ - شعلہ رو (ع - ۱ - ف) [ع - ۱ - مذ] دھکتے چھبے والا - (۲) معشوق شعلہ درون - (ع - ۱ - ف) [ع - ۱ - مذ] اندرونی آگ - دل کی پیش شعلہ زار - (ع - ۱ - ف) [ع - ۱ - مذ] شعلہ پیدا کرنے والا - شعلہ زبان - تیز زبان - شعلہ زان - (ع - ۱ - ف) [ع - ۱ - مذ] شعلہ مارنے والا شعلہ نکلنے والا - شعلہ طور - (ع - ۱ - مذ) وہ زور جو حضرت موسیٰ کو طور پہاڑ پر دکھائی دیا - شعلہ فشاں - (ع - ۱ - ف) [ع - ۱ - مذ] شعلہ برسانے والا - شعلہ مستعلج - (ع - ۱ - مذ) ناپاؤ شعلہ (۲) اچھی اور ناپاؤ شعلہ شعلے اگلتا - (۱) محاورہ) کسی چیز کا آگ کی پیش دینا -

شک آنا۔ شک پڑنا۔ (احمدیہ) شبید ہونا۔ گمان ہونا۔
 شک جانا۔ (مص مرکب) (۱) شبید ہونا۔ (۲) شبہ دور ہونا۔
 شک ڈالنا۔ (احمدیہ) شبید کرنا۔
 شک رفع کرنا۔ (احمدیہ) شبہ دور کرنا۔ شک نکالنا۔
 شک ظاہر کرنا۔ (احمدیہ) شبہ کا اظہار کرنا۔
 شک گزرتا۔ (احمدیہ) شبہ ہونا۔
 شکار (ش۔ کار) [ع۔ ا۔ مذ] (۱) جانوروں کا مارنا (۲) مارا ہوا جانور۔
 (۳) وہ جانور جس کا شکار عام طور پر کیا جاتا ہے (۴) ٹوٹ مٹتے کا مال۔
 شکار بند۔ (ن۔ ا۔ مذ) وہ قسم جو کھوڑے کی دم کے ذریعہ شکار لگانے یا
 ضروری سامان باندھنے کے لیے ہوتا ہے۔
 شکار کا ربیکا رلاں۔ (ا۔ مثل) شکار بیکار لوگوں کا مشغول ہے۔
 شکار کرنا۔ (احمدیہ) (۱) کسی جانور یا حیوان کو مارنا (۲) قابو میں لانا۔
 (۳) فریقت کرنا۔ مہلک کرنا۔ مغلوب کرنا (۴) فریب سے ہوننا۔
 شکار کھیلنا۔ (مص مرکب) جانور کو مارنا۔ جانور کو کھیلنا۔
 شکار کی ٹٹی۔ (ا۔ مثل) ایک چھوٹی سی ٹی جس پر گھاس اور پتے باندھ کر
 شکاری اپنے باس رکھتا ہے۔
 شکار کے وقت کیا مانگنی۔ (ا۔ مثل) کام کے وقت جیسے بہانے کرنا۔
 یا عین موقع پر مل جانا۔
 شکار گاہ۔ (ن۔ ا۔ مذ) شکار کھیلنے کا جھنگل۔ رہنا۔ صید گاہ۔
 شکار کا فقہ آنا۔ (احمدیہ) شکار کا نور ملنا۔ کسی کا وکیلوں، طوائفوں
 یا بد معاشرہ کے قابو آنا (۲) مہنت ملنا۔
 شکار ہونا۔ (۱) کسی جانور کا مارا جانا (۲) جال میں پھنسا۔ قابو میں آنا۔
 (۳) عاشق ہونا۔ مفتون ہونا۔
 شکاری۔ (ش۔ کاری) [ن۔ ا۔ مذ] (۱) شکار کرنے والا شخص (۲)
 صیاد (۳) شکار سے نسبت رکھنے والا۔
 شکاری جانور۔ (ن۔ ا۔ مذ) شکار کرنے والا جانور۔
 شکاری گٹا۔ (ا۔ مذ) شکار پکڑنے والا گٹا۔
 شکار۔ [ع۔ ا۔ مذ] وہ گھوڑا جس کی تین ٹانگیں سفید اور چوٹی کسی اور
 رنگ کی ہو۔
 شکانا۔ [ن۔ مص] ڈرانا۔
 شکایت۔ (ش۔ کا۔ بیت) [ع۔ ا۔ مذ] (۱) گلہ۔ شکوہ (۲) مرض
 بیماری (۳) فریاد۔ داخواہی (۴) بُرائی۔ بُدی۔ عیب۔
 شکایت آمیز۔ (ع۔ ف۔ ص) شکایت سے بھرا ہوا جس میں شکایت
 پائی جائے۔
 شکایت رفع کرنا۔ (۱) محاورہ) دکھ درد دور کرنا۔ تکلیف مٹانا۔ شکایت
 یا گلہ کی تلافی کرنا۔
 شکایت کرنا۔ (احمدیہ) گلہ کرنا۔ دکھڑا ہونا (۲) غیبت کرنا (۳)
 کوئی تکلیف ہونا۔
 شکایت مند۔ (ع۔ ف۔ ص) شکایت کرنے والا۔ گلہ گزار۔
 شکایت ہونا۔ (احمدیہ) گلہ سونا (۲) کوئی بیماری ہونا (۳) بُرائی بیان کرنا۔
 مشکوک۔

شفق کا گلہ۔ (۱) صفت) نہایت حسین۔
 شفقت۔ (شفت۔ قت) [ع۔ ا۔ مذ] (۱) لطف۔ مہربانی۔ رحم
 (۲) محبت۔ پیار۔ جمع : اشفاق
 شفق۔ (ش۔ ق۔ تی) [ع۔ ص] شفق سے متعلق۔ شفق کی مانند۔
 شفیع۔ (ش۔ ف۔ ی) [ع۔ ص] (۱) شفاعت کرنے والا۔ (۲) شفیع
 کا صحیح رکھنے والا۔
 شفیع الأئم (الورا) [ع۔ ص] اُمت کی شفاعت کرنے والا۔
 پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب۔
 شفیع محشر۔ (ع۔ ص) محشر کے دن شفاعت کرنے والا۔ رسول
 صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب۔
 شفیق۔ (ش۔ ف۔ ی) [ع۔ ص] (۱) مہربان۔ بخوار۔ ہمدرد۔ (۲) پیارا

ش۔ ق۔

شق۔ [ع۔ ص] (۱) پھا ہوا۔ شکاف پڑا ہوا (۲) [ا۔ مذ] شکاف۔ دراڑ۔
 شق القمر۔ (ع۔ ا۔ مذ) چاند کا پھٹ جانا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔
 شق۔ (ع۔ ا۔ مذ) (۱) نصف حصہ (۲) ٹکڑا حصہ (۳) طرف۔ جانب
 (۴) قسم۔ نوع۔
 شق نکالنا۔ (احمدیہ) شبہ کرنا۔ جھگڑا نکالنا۔
 شق نکلتا۔ (احمدیہ) جھگڑا نکلتا۔ شخ نکلتا۔
 شق ہونا۔ (احمدیہ) پھٹ جانا۔
 شقا۔ (ع۔ ا۔ مذ) بد بختی۔
 شقات۔ (ع۔ ا۔ مذ) دشمنی۔ مخالفت۔ نفاق۔
 شقاوت۔ (ش۔ ق۔ ا۔ و) [ع۔ ا۔ مذ] (۱) بد بختی۔ بد نصیبی
 (۲) بد معاشرہ (۳) سنگدلی
 شقائے ش۔ ق۔ ا۔ و) [ع۔ ا۔ مذ] (۱) شقیقہ کی جمع (۲) شکاف (۳)
 نکل لالہ۔ ایک پھول۔
 شقہ۔ (ش۔ ق۔ ا۔ و) [ع۔ ا۔ مذ] (۱) وہ رقم جو بادشاہ اپنے اہل کو کسی
 ضروری امر کے لیے لکھے۔ خط۔ رقم۔ (۲) وہ پیر جو علم میں باندھتے
 ہیں۔ پھریرا۔
 شقی۔ (ش۔ ق۔ تی) [ع۔ ص] (۱) بد بختی۔ بد نصیب (۲) غلام سنگدل جمعاً
 شقیین۔ (ع۔ ص) نصف۔ آدھا ٹکڑا۔ ہر چیز کا نصف (۲) سنگائے
 شقیقہ۔ (ش۔ ق۔ تی) [ع۔ ا۔ مذ] (۱) کینٹی (۲) آدھے سر کا درد۔

ش۔ ک۔

شک۔ [ع۔ ا۔ مذ] شبہ۔ گمان۔ احتمال۔ اشتباہ۔ ابہام۔ جمع:
 مشکوک۔

شکابنی - (شکابنی) [اُرصف] شکایت سے متعلق شکایت کرنے والا۔
شکستی - (شکستی) [س-امث] طاقت - بل - زور۔
شکر - (شکر) [ش-مکر-شک-کر] [ف-امث] کھانڈ - جینی - بورا۔
شکر بارہ - (ش-امث) ایک قسم کی مٹھائی جو مربع شکل کی ہوتی ہے۔
شکر بیٹونا - چنے یا مٹر کا دس جن پر شکر لپیٹی ہوتی ہے۔ (ق)
شکر تری - (ف-امث) سفید شکر
شکر خا - (ف-امث) (۱) شکر جیٹا ہوا (۲) شیریں سخن۔
شکر خند - (ف-امث) شکر خندہ - (ف-امث) شکر اہٹ - بیٹم۔
شکر جوانی - (ف-امث) میٹھی بوند۔
شکر خور - (ف-امث) (۱) ایک بزرگ جو س یا مٹھاس نہایت شوق سے کھائے (۲) زمان کھلنے والا۔
شکر خورے - (ف-امث) کسی کو خدا شکر ہی دیتا ہے۔ (۱-مٹ) جیسی خواہش ہو ویسے ہی سامان پیدا ہوتا ہے۔
شکر خورے - (ف-امث) کسی کو شکر خوردی کو مگر۔ (۱-مٹ) اچھے کو نیک نتیجہ اور بے کو مرزا ملتی ہے۔
شکر دان - (ف-۱-مڈ) چینی رکھنے کا برتن۔
شکر دان - (ف-۱-مٹ) میٹھی میٹھی باتیں کرنے والا۔
شکر رنجی - (ف-۱-مٹ) معمولی سی رنجش۔
شکر برز - (ف-۱-مٹ) شیریں گفتار - خوش طبع - پر مذاق۔
شکر زبان - (ف-۱-مٹ) شیریں سخن اور خوش گفتار۔
شکر سے مزید - (ف-۱-مٹ) کسی خوشخبری کے شکر میں مٹھائی کھلانا - مٹھیا کھلانا۔
شکر شکن - (ف-۱-مٹ) شیریں زبان - شیریں کلام کرنے والا۔
شکر و شیر ہونا - (۱-مٹ) بہت گہرے دوست ہونا - شیر و شکر فصیح ہے۔
شکر خوش - (ف-۱-مٹ) شکر فشان - (ف-۱-مٹ) شکر بیچنے والا - (۲-مٹ) شیریں زبان۔
شکر قند - (۱-مٹ) ایک قسم کی میٹھی زکامی جسے اُبال کر یا ریت میں بھون کر کھاتے ہیں۔
شکر گفتار - (ف-۱-مٹ) شیریں سخن - شیریں زبان۔
شکر گنج - (۱-مٹ) شکر کا خزانہ (۲) حضرت ذریر الدین مسعود کا لقب۔
شکر - (ع-۱-مڈ) احسان ماننا - سپاس - احسان مند۔
مشکر ایزد - (ع-۱-مڈ) اللہ کا شکر خدا کے احسان کی تعریف کا اظہار۔
مشکر کی جگہ ہونا - (۱-مٹ) احسان ماننے کا موقع یا محل ہونا۔
مشکر گزار - (ف-۱-مڈ) احسان ماننے والا۔
مشکر گزاری - (ف-۱-مٹ) احسان مندی - ممنونیت۔
مشکر لب - (ف-۱-مٹ) میٹھے ہونٹوں والا - کلامیتا معشوق۔
مشکر اند - (شک-ماند) [اُر-مڈ] وہ خشک جس میں کھانڈ اور گھی ملا کر کھلائیں۔
مشکر اند - (شک-ماند) [ف-۱-مڈ] وہ رقم جو کامیابی کے بعد علاوہ مختار کے دی جاتے۔

شکر وار - (س-۱-مڈ)
شکر دم - (شک-رم) [اُر-امث] ایک قسم کی چار پیموں والی گاڑی۔
شکرہ - (شکرہ) [ف-۱-مڈ] باز کی قسم کا ایک شکاری پرندہ۔
شکرہ بانا - (۱-مٹ) اپنے سر پر لینا (۲) خرچ یا نذرنا (۳) بھروسہ کرنا۔
شکریرہ - (شک-ری-یر) [ع-۱-مڈ] کسی کے احسان کا تعریف کے ساتھ اظہار۔
شکست - (ش-کست) [ف-۱-مٹ] (۱) بار بہر ہمت - مات (۲) ٹوٹ پھوٹ - شکستی۔
شکست بند - ایک قسم کا پھل جو ٹوٹتا اور بند ہوتا ہے۔
شکست بانا - (۱-مٹ) بار جانا - زک اٹھانا - مات کھانا۔
شکست پذیر - (ف-۱-مٹ) کچا - نازک (۲) ٹوٹ جانے والا۔
شکست توبرہ - (ف-۱-مٹ) توبرہ کا ٹوٹنا یا ٹوٹنا۔
شکست خوردہ - (ف-۱-مٹ) بار جانا - ہزیمت کھانا ہوا۔
شکست فاش - (ف-۱-مٹ) ایسی شکست جس میں کسی کو شبہ نہ ہو۔
شکست بھاری شکست۔
شکست کھانا - (۱-مٹ) بار جانا - زک اٹھانا۔
شکست و رنجت - (ف-۱-مٹ) ٹوٹ پھوٹ - نقصان - ہرجہ۔
شکست یافتہ - (ف-۱-مٹ) ہزیمت خوردہ - بار جانا۔
شکستی - (ش-کستی) [ف-۱-مٹ] ٹوٹ پھوٹ - اہتمام۔
شکستہ - (ش-کست) [ف-۱-مٹ] ٹوٹا ہوا - گرا ہوا (۲) خراب۔
شکستہ بال - (۳) وہ رسم الخط جو کھسٹ کر کھٹا جائے۔
شکستہ پاز - (۳) شکستہ یا شکستہ پر - (ف-۱-مٹ) بے بس۔
شکستہ خاطر - (ف-۱-مٹ) اُداس - نکلین - مایوس۔
شکستہ حال - (ف-۱-مٹ) خستہ حال محتاج - یقینیت زدہ۔
شکستہ رنگ - (ف-۱-مٹ) جس کا رنگ اُڑا ہوا ہو۔
شکستہ نویس - (ف-۱-مڈ) شکستہ رسم الخط کھینچنے والا۔
شکستنا - (س-۱-مٹ) علم - تحصیل علم - و دیا (۲) تعلیم دینا - تربیت کرنا۔
شکل - (ع-۱-مٹ) [اُر-امث] (۱) صورت - قطع - روپ (۲) چہرہ (۳) وضع۔
شکل - (ع-۱-مٹ) انداز (۲) طور طریق (۳) نوع - قسم (۴) نقشہ - ڈھانچہ (۵) تدبیر - سبیل (۶) صورت (۷) حالت - گت (۸) مشابہ - مثل - مانند - جمع اشکال۔
شکل بدلنا - (۱-مٹ) صورت تبدیل کرنا - وضع بدلنا - بھیس بدلنا۔
شکل بگاڑنا - (۱-مٹ) صورت بگاڑنا - چہرہ بد صورت کر دینا۔
شکل بنانا - (۱-مٹ) صورت کر دینا۔
شکل بنانا - (۱-مٹ) نقشہ بنانا - خاکہ کھینچنا (۲) نقل کرنا - کسی صورت کا اختیار کرنا۔
شکل بگاڑنا - (۱-مٹ) چہرہ بگاڑنا - منہ بنانا۔
شکل بگاڑنا - (۱-مٹ) صورت اختیار کرنا۔
شکل نو بھون - (۱-مٹ) (۲) حوصلہ دیکھو - ہمت دیکھو۔

شکیل - (ش کیل) [اُر صَف] حُسنِ خوبصورت - وچہرہ -
شکیلہ - (ش کی - لہ) [اُر صَفَت] خوبصورت عورت -

ش - گ

شگاف - (ش - گاف) [ف - ا - ند] (۱) درز - دھاڑ - بھری (۲) قلم کے بیچ کا چھاؤ -

شگاف پڑنا - (ا - محاورہ) بھٹ پڑنا -

شگاف دینا - شگاف لگانا - (ا - محاورہ) (۱) قلم کو چیرنا (۲) منتشر لگانا چیرا دینا -

شگرفت - (شگ - رفت) [ف - صَف] (۱) عمدہ - عجیب (۲) نادر (۳) نیاک بزرگ (۴) خوبصورت حسین

شگفت - (ش - گفت) [ف - ا - ند] تعجب - حیرت -

شگفت - (ش - گفت) [ف - ا - ند] خوش - کھلا ہوا (مث) تفریح - خوشی

شگفتگی - (ش - گف - ت - گی) [ف - ا - مِث] (۱) پھول کا کھلنا (۲) خوشی فرحت (۳) سرسبزی - شادابی -

شگفتہ - (ش - گف - تہ) [ف - صَف] (۱) کھلا ہوا (۲) خوش - شادمان - مسرور شگفتہ بحر - وہ بحر جس کے اشعار میں طبیعت اور الفاظ کی روانی پائی جائے -

شگفتہ پستانی - (ف - صَف) ہنس مکھ - خندہ پیشانی -

شگفتہ خاطر - (ف - صَف) خوش مزاج - بشاش -

شگفتہ دل - شگفتہ طبع - شگفتہ مزاج - (ف - صَف) خوش مزاج - سبک گھ

شگفتہ رُو - (ف - صَف) ہنس مکھ - خندہ پیشانی -

شگفتہ زمین - (ف - ا - مِث) وہ روایت قافیہ جس میں اچھے شعر نکلیں -

شگن - (ش - گن - ش - گن) [ا - ہ - ا - ند] (۱) شگون - فال (۲) نذرانہ - نقد - نیاک -

شگن سجانا - (ہ - محاورہ) فال دیکھنا -

شگن کرنا - (ہ - محاورہ) (۱) کسی کام کو اچھے وقت میں شروع کرنا (۲) ابتدا کرنا - سہل کرنا -

شگنیا - (ش - گن - یا) [ا - ہ - ا - ند] رمال - فالیا - نجومی -

شگوفہ - (ش - گو - فہ) [ف - ا - ند] (۱) کلی - بن کھلا پھول (۲) عجیب - انوکھی بات

شگوفہ چھوٹنا - (ا - محاورہ) (۱) کلیاں کھلنا - کلیاں کھلنا (۲) انوکھی بات کھلنا (۳) فتنہ کھڑا ہونا (۴) ناگمان امر پیش ہونا -

شگوفہ چھوڑنا - (ا - محاورہ) کوئی فتنہ انگیز بات کہنا -

شگوفہ کاری - (ف - ا - مِث) گلکاری - پھول بی بنا - نمونہ قدت -

شگوفہ کھلانا - (ا - محاورہ) (۱) پھول کھلانا - بہار دکھانا (۲) انوکھی بات کرنا (۳) فتنہ اُٹھانا -

شگوفے کھلانا - (ا - محاورہ) عجیب - نکالنا -

شگون - (ش - گون) [ف - ا - ند] (۱) شگون (۲) فال (۳) نیکا انجام - شگون لینا - (ا - محاورہ) فال لینا - مبارک گھڑی دیکھنا - کسی کام کے ہونے یا

شکل چٹیلوں کی مزاج پر یوں کا - (امش) چوہوتی پر غرور کرنے والا -
شکل چھاری - (ع - ا - مِث) افسوس کے پیلے مغالہ کی بیویوں کی شکل جو ایسی آسان ہے کہ اسے نہ سمجھے والا نہایت احمق سمجھا جاتا ہے -

شکل دیکھا کرے - (ا - محاورہ) حیران ہو جائے -

شکل زیر معلوم ہونا - (ا - محاورہ) صورت سے نفرت ہونا -

شکل سے بیزار ہونا - (ا - محاورہ) سخت نفرت کرنا -

شکل نکالنا - (ا - محاورہ) موقع نکالنا - کوئی تدبیر سدا کرنا -

شکل و شاہت - (ف - ا - مِث) صورت - چہرہ - رنگ - ڈھنگ -

شکل و مشاغل - (ف - ا - مِث) صورت و میرت - رنگ و روپ -

شکم - (شکم - ش - کم) [ف - ا - ند] پیٹ - بطن -

شکم بندہ - شکم پرست - شکم پرور - (ف - صَف) (۱) بیٹو - کھاؤ (۲) حریص - لالچی -

شکم سیر - (ف - صَف) پیٹ بھرا ہوا - رجا ہوا - آسودہ -

شکمی - (شک - می) [ف - صَف] (۱) جھکاؤ - مادر زاد پیدائشی (۲) پیٹ سے متعلق (۳) سچ کا - اندر دنی - (۴) بڑھاپہ (۵) وہ کاشتکار جو

ارضی کو اصلی کاشتکار سے لے کر جوتے ہوئے -

شکسن - (ش - کن) [ف - ا - مِث] (۱) چیں - بل (۲) مچھول - سلوٹ -

شکستن مصدر کا صیغہ امر جو اسم کے بعد آ کر اسے اسم فاعل بناتا ہے جیسے بُت شکسن -

شکسن ڈرٹین - (ف - صَف) پھپھار زلف اور بالوں کی تعریف میں کہا جاتا ہے

شکسن ڈالنا - بل ڈالنا -

شکسجہ - (ش - کن - سچ) [ف - ا - ند] (۱) مجرموں کو مزادینے کا آلہ - (۲) جلد سازوں کا ایک اوزار جس میں کتابیں دبا کر کاٹتے یا پٹتے لگاتے ہیں -

(۳) عذاب - ایذا - دکھ - تکلیف -

شکستہ آبی - (ف - ا - ند) روٹی دہانے کا ایک آلہ جو پانی کے دباؤ سے روٹی کے حجم کو کم کر دیتا ہے - براہ پریس -

شکستہ میں کھجوانا - شکستہ میں کھینچنا - (ا - محاورہ) (۱) ملزم کو شکستہ کے ذریعہ عذاب دینا (۲) سخت مزاج دینا - (۳) چاروں طرف سے بھگڑ دینا -

شکسور - (ش - کور) [ع - صَف] (۱) بُت شکر کرنے والا (۲) خدا کا ایک صفاتی نام -

شکوک - (ش - کوک) [ع - ا - ند] شک کی جمع - شبہات -

شکوکہ - (شک - کوک) [ف - ا - ند] شکایت - گلہ -

شکوکہ سنج رگزار - (ع - ف - صَف) شکایت کرنے والا -

شکوکہ گزاری - (ف - ا - مِث) گلہ - دوستانہ شکایت -

شکوکہ مند - (ف - صَف) شکوکہ کرنے والا - گلہ کرنے والا -

شکوکہ - (ش - کوک) [ف - ا - ند] (۱) غم - رعب - داب - نشان و شوکت -

شکلی - (شک - کی) [ا - صَف] (۱) وہی شبہ کرنے والا (۲) غیر یقینی -

شکیب - (ش - کیب) [ف - ا - ند] صبر - تحمل - بردباری - برداشت -

شکیب - (ش - کیب) [ف - ا - ند] (۱) صبر و شکیب استعمال جرتا ہے -

شکیبانی - (ش - کیب) [ف - ا - مِث] صبر - شکیب - تحمل -

شمار۔ (ش۔ مار) [ف۔ ا۔ مذ] (۱) گنتی۔ تعداد (۲) حساب۔ جمعیت۔
شمار داتے۔ (ف۔ ا۔ مذ) وہ دانے جو تسبیح کے پھندنے میں سیکڑوں
کا حساب کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔
شمار سے باہر۔ (اصف) بے حساب۔ اُن گنت۔
شمار کنندہ۔ (ف۔ صفت) (۱) شمار کرنے والا (۲) علم حساب میں کسر کے

اد پر کا عدد جیسے ۲ میں دو۔
شمار میں نہ لانا۔ (ا۔ محاورہ) کچھ نہ سمجھنا۔ کچھ نہ ماننا۔ پروا نہ کرنا۔
شمار میں نہ ہونا۔ (ا۔ محاورہ) ادنیٰ ہونا۔ بالکل معمولی ہونا۔
شمار نویس۔ (ف۔ ا۔ مذ) محاسب۔ حساب کرنے والا۔
شماریات۔ (ش۔ مار۔ ریات) (ف۔ ا۔ مثن) اعداد و شمار کی باضابطہ
فراہمی (Statistics)

شمال۔ (ش۔ شم۔ ماش) [ع۔ ا۔ مذ] (۱) آفتاب پرست۔ سورج کی پرستش کرنے والا
شمال۔ (ش۔ مال) [ع۔ ا۔ مذ] (۱) بائیں ہاتھ (۲) اتر کی جانب قطب شمالی
کی سمت (۲) خصلت۔ عادت۔ طبیعت۔ جمع: شمال۔
شمال رو۔ شمال روید۔ (ع۔ صفت) جس کا رخ شمال کی طرف ہو۔
شمالی۔ (ش۔ مالی) [ف۔ صفت] شمال سے منسوب۔ اتر کا۔
شمالی ہوا۔ (ف۔ ا۔ مذ) باد شمال۔ اتر کی ہوا۔
شمالیہ۔ (ش۔ مائ۔ م) [ع۔ ا۔ مذ] خوشبو۔ خوشبو کی گویاں۔
شمالیہ۔ (ش۔ مائ۔ مال) [ع۔ ا۔ مذ] عادتیں خصلتیں۔
شمالیہ۔ (ش۔ مائ۔ ام) [ع۔ ا۔ مذ] خوشبو میں شمیم کی جمع۔
شمالیہ۔ (ع۔ ا۔ مذ) (۱) حضرت امام حسینؑ کا قاتل (۲) کنایتاً مردود۔
شمالیہ۔ شغلی۔ ظالم۔

شمار دگی۔ (ش۔ م۔ ڈ۔ گی) [ف۔ ا۔ مثن] گنا۔ شمار کرنا۔
شمار دہ۔ (ش۔ م۔ دہ) [ف۔ صفت] گنا ہوا۔ شمار کیا ہوا۔
شمس۔ (ع۔ ا۔ مذ) سورج۔ آفتاب۔ جمع: شمس۔
شمس نقلین۔ (ع۔ ا۔ مذ) انسانوں اور جنوں کا سورج مراد سمیٹھی اللہ علیہ وسلم
شمس العلماء۔ (ع۔ خطاب) انگریزی عہد کا ایک خطاب۔
شمسہ۔ (شم۔ نہ) [ع۔ ا۔ مذ] (۱) وہ سنہرا چاند جو کلس میں لگاتے ہیں (۲)
چھوٹا پھندا جو تسبیح میں لگاتے ہیں۔ روشندان۔
شمسی۔ (شم۔ سی) [ع۔ صفت] سورج سے متعلق۔ سورج کا۔
شمشاو۔ (شم۔ شاد) [ف۔ ا۔ مذ] ایک لمبا خوبصورت درخت۔
شمشاو قامت۔ شمسادقہ۔ (ع۔ صفت) لمبے قد کا۔ معشوق۔
شمشان۔ (شم۔ شان) [س۔ ا۔ مذ] مسان جہاں ہندو لوگ مڑے جلاتے ہیں۔
شمشور۔ (شم۔ شور) [ا۔ ا۔ مذ] چاول یا دال کو پانی میں ڈال کر تھیں بیٹھے
ہوئے لٹکر چنے کا عمل۔

شمشیر۔ (شم۔ شیر) [ف۔ ا۔ مثن] (۱) شمشیر۔ یعنی ناخن۔ شمشیر کے ناخن کی مانند
شمس۔ (۲) تلوار۔ تیغ۔
شمسہ انزنا۔ (ا۔ محاورہ) تلوار کا جسم میں گھسنا۔
شمشیر بڑاں۔ کاٹنے والی تلوار۔ تیز تلوار۔
شمشیر برہنہ۔ (ف۔ ا۔ صفت) منگی تلوار۔ (۲) لڑنے میں ہتھیار۔

نہ ہونے کا وقت دیکھنا۔
شگون ہونا۔ (ا۔ محاورہ) اچھی فال نکلنا (۲) نسبت یا منگنی کی رسم ادا ہونا۔

ش۔ ل

شمل۔ (ع۔ صفت) (۱) جسے (۲) تھکا ماندہ۔
شمل ہو جانا۔ (۱) کام سے تھک جانا (۲) ہاتھ پاؤں کا شرم ہو جانا (۳) جسم کے کسی عضو کا
بیکار ہو جانا۔

شمل۔ (ف۔ ا۔ مذ) چھوٹا بیزہ (۲) برہمی۔ ترسول (۳) چھلی مارنے کا بیزہ
شملق۔ (ف۔ ا۔ مذ) ڈر سے مارنا۔ بہت مارنا (۲) لالچی۔ چابک (۳)

شملہ۔ (ش۔ مل۔ جم۔ شمل۔ غم) [ف۔ ا۔ مذ] ایک نرکاری۔
شملہ سائیکھیں۔ [ا۔ ا۔ مثن] بڑی بڑی آئینیں۔
شملہ۔ (ع۔ ا۔ مثن) بندوق کی ماڑھ۔ (۲) مٹی۔ (۳) فرج۔
شملہ۔ (ش۔ لن) [ا۔ مثن] (۱) کٹری یا کوڑے سے مار پیٹ۔
شملہ۔ (ش۔ بک) [ف۔ ا۔ مثن] بندوقوں یا توپوں کی ماڑھ جو سلامی
کے لیے چھوڑی جائے۔

شملہ آڑا نا۔ (ا۔ محاورہ) بار چلانا (۲) سلامی آنا (۳) گپ یا کتا۔
شملہ۔ (ش۔ لنگ) [ف۔ ا۔ مثن] چھلانگ۔ جست۔ پھلانگ۔
شملہ بھرنہ۔ (ا۔ محاورہ) چھلانگ مارنا۔ اونچا اچھلنا۔
شملہ۔ (Shilling) (ش۔ لنگ) [ا۔ مذ] انگریزی
سیکہ جو بارہ پیس کا ہوتا ہے۔

شملہ گا۔ (ش۔ لن۔ گا) [ا۔ ا۔ مذ] دور دور کا ٹانگا۔
شلوار۔ (شمل۔ وار) [ف۔ ا۔ مثن] بھاری گاڈوم پاجامہ۔
شلوک۔ (ش۔ لوک) [س۔ ا۔ مذ] (۱) نظم۔ شعر۔ بند (۲) حمد۔ قصیدہ۔
شلوکا۔ (ش۔ لو۔ کا) [ا۔ ا۔ مذ] کہنیوں تک آئینوں کا گزرتے جو کمر
تک ہوتا ہے۔

شملہ۔ (شمل۔ لہ) [ا۔ ا۔ مذ] (۱) ایک قسم کا کھانا جو چاولوں کو شوریلے
پس بہت گللا کر پکاتے ہیں۔ (۲) پھڑی۔

شملتیا۔ شملیتہ۔ (ش۔ لی۔ تیا۔ ش۔ لی۔ تہ) [ا۔ ا۔ مذ] ٹاٹ کا بڑا قبیلہ۔
شملیتہ میں میخ نہ رکھیے لشکر میں شیخ نہ رکھیے۔ (۱) میخ بھیلے
کو پھاڑ دیتی ہے اور شیخ جگمگ میں بڑی دکھاتا ہے۔

ش۔ م

شما۔ (ف۔ ضمیر) تم۔ آپ
شمانت۔ (ش۔ ما۔ منت) [ع۔ ا۔ مثن] (۱) کسی کے نقصان پر غصہ
ہونا۔ (۲) خندہ زنی۔

شتمبر کیفیت - (ف صفت) لڑنے پر تیار (۲) شمشیر ہاتھ میں لیے ہوئے۔
 شمشیر نونا - (۱-محاورہ) تلوار سنبھالنا۔ وار کے لیے تیار ہونا۔
 شمشیر دم - (ف صفت) تلوار کی باڈھ رکھنے والا۔
 شمشیر دوم - (ف صفت) دودھاری تلوار۔
 شمشیر زن - (ف صفت) (۱) جہاد (۲) تلوار چلانے والا۔
 شمشیر زنی - (ف-۱) تلوار کی لڑائی۔
 شمشیر علم کرنا - (۱-محاورہ) تلوار کو مارنے کے واسطے اٹھانا۔
 شمشیر چھپتے - (۱-محاورہ) میدان جنگ میں جاں نشتوں کی لاشیں پڑی ہوں
 شمشیر ہلائی - (ف-۱) ایک قسم کی تلوار جو بیچ میں سے خنجر ہوتی ہے۔
 شمع - (ع-۱) موم جی کی چربی۔ چربی کی جٹی۔
 شمع آئین - (۱) وہ جس سے محفل کی رونق ہو (۲) صدر محفل۔
 (۲) مردوں کی مجلس میں بے پردہ عورت (۳) محشوق۔
 شمع آئین - (ع-۱) مٹ) وہ تجلی جو حضرت مریمؑ کو کوہ طور پر نظر آئی تھی۔
 شمع بایں - (ع-۱) مٹ) وہ شمع جو قبر کے سر ہائے روشن کی جاتی ہے۔
 شمع بڑھانا - (۱-محاورہ) شمع گل کرنا شمع بھانا۔
 شمع بڑھانا - (۱-محاورہ) شمع گل بوجھانا۔ شمع بچھ جانا۔
 شمع بھڑکی کرنا - (۱-محاورہ) شمع بھجھانا۔
 شمع جلتی کرنا - (۱-محاورہ) مٹ) ماننا۔ مٹتے ماننے کے لیے شمع جھلانا۔
 شمع جھلانا - (۱-محاورہ) شمع کا کم جھلنا۔
 شمع چڑھانا - (۱-محاورہ) مٹ) پوری ہونے پر کسی مزار پر شمع کا جھلایا جانا۔
 شمع جیات گل ہونا - (۱-محاورہ) مرجانا۔
 شمع صفت جھلنا - (۱-محاورہ) غم کی وجہ سے جلتی ہوئی شمع کی طرح گھلنا۔
 شمعدان - (ف-۱) مذ) وہ برتن جس میں موم جی رکھا جلاتے ہیں۔
 شمع دکھانا - (۱-محاورہ) روشنی دکھانا (۲) رہنمائی کرنا۔
 شمع رخ - شمع رخسار - شمع رو - (ف صفت) نورانی چہرہ والا (کنایتاً معنی)
 شمع سحری - (ع-۱) مٹ) صبح کا چراغ جو عقرب فنا ہونے والا۔
 شمع عالم نایب - (ف صفت) دنیا کو روشن کرنے والی شمع۔ آفتاب
 شمع عقل گل ہونا - (۱-محاورہ) عقل جاتی رہنا۔
 شمع کا آئسو - (ع-۱) مٹ) موم کا ٹپکنا ہوا قطرہ۔
 شمع کا چور - وہ رخصت جو جلتی ہوئی شمع میں ایک طرف موم گھل جانے
 سے ہوتا ہے۔
 شمع کا خاموش ہونا - شمع کا بجھ جانا۔
 شمع کا روئینت برابر ہے - (۱) مثل) صاف باطن۔ آگے چھپے برابر ہونا
 شمع کا فوری - (ف-۱) مٹ) سفید رنگ کی شمع۔
 شمع کشتہ - (ف صفت) بجھی ہوئی شمع۔
 شمع گل کرنا - (۱-محاورہ) شمع بڑھانا۔ شمع کا بھجھانا۔
 شمع محفل - (ع-۱) مٹ) وہ جس سے محفل کی رونق ہو محشوق۔
 شمع مردہ - (ف صفت) بجھی ہوئی شمع۔
 شمع مزار - (ف-۱) مٹ) وہ شمع جو مزار پر جلی جاتی ہے۔
 شمععی - (شم-۱) مذ) سبز رنگ مائل۔ سیاہی میں کوئی سیاہی نہ لگنے میں

ش۔ن

شنا - (ش-نا) (ف-۱) مٹ) پانی میں تیرنا۔
 شناخت - (ش-ناخت) (ف-۱) مٹ) (۱) پہچان۔ تمیز (۲) شناسائی
 واقفیت۔
 شناخت کرنا - (مص مرکب) پہچانا۔
 شناختی کارڈ - (ا-۱) مذ) وہ کارڈ جس کے اندراجات سے کارڈ رکھنے والے
 کی شناخت مقصود ہو۔ (Identity Card)
 شناختی نشان - (ا-۱) مذ) جسم پر کوئی ایسا نمائیاں نشان جس سے
 شناخت ہو سکے۔
 شناس - (ف صفت) پہچاننے والا شناختن مصدر کا صیغہ امر، اسم کے
 بعد آنے پر اسم فاعل بنانا ہے اور پہچاننے والے کے معنی دیتا ہے
 جیسے اختر شناس، حقیقت شناس۔
 شناسا - (ش-نا-سا) (ف-۱) صفت) (۱) پہچاننے والا (۲) پرکھنے والا۔
 (۳) جان پہچان۔
 شناسائی - (ش-نا-سائی) (ف-۱) مٹ) جان پہچان۔ واقفیت صاحب سلا۔
 شناخت - (ش-ناخت) (ع-۱) مٹ) (۱) بدی۔ برائی (۲) گندگی۔
 شناور - (ش-نا-ور) (ف صفت) پیرا کر تیرنے والا۔
 شناوری - (ش-نا-وری) (ف صفت) پیرا کر کی۔
 شناہ - (ف-۱) مذ) سرنائی۔ مشک جس کے ذریعے تیرتے ہیں۔
 شنبہ - (شم-ب) (ف-۱) مذ) ہفتہ۔ سینچر
 شجر ف - شکر ف - (ش-ش-ج-ف-ش-ک-ف) (ف-۱) مذ) ایک سرخ رنگ کی
 دھات جو کندھک اور پائے کی آمیزش سے تیار کی جاتی ہے۔
 شنگ - (ف صفت) جالاک۔ شوخ۔ ظریف۔
 شنگری - (ش-ش-گری) (ف صفت) شکر ف کے رنگ کا سرخ۔
 شنو - (ش-ن) (۱) (ف صفت) سنسنے والا۔
 شنوائی - (ش-ن-وائی) (ف-۱) مٹ) (۱) سماعت۔ سننا (۲) وادری
 شنوائی نہ ہونا - (۱-محاورہ) توجہ نہ ہونا۔ پروا نہ ہونا۔
 شنوید - (ش-ن-د) (ف-۱) مٹ) (۱) کسی ہوئی بات (۲) سننا۔
 شنویدنی - (ش-ن-دنی) (ف-۱) مٹ) (۱) سنسنے کے قابل۔

مشفیدہ - (ش-بی-دہ) [ف-صف] مُسنا ہوا۔
 شفیہ کے بنو مانندہ - (ن-مشل) سُنی ہوئی بات کی وقعت
 دیکھی ہوئی بات کے مقابلہ میں نہیں ہوسکتی۔
 شیبغ - (ش-یح) [ع-صف] بد-خواب۔
 شیبغہ - (ش-بی-عہ) [ع-صف] بُرے افعال۔

ش-و

شوو - (ف-شستن) مصدر کا ہیئتہ امر جو اسم کے بعد اگر سے اسم فاعل بنا دینا ہے معنی دھونے والا۔ لائحہ کے طور پر آتا ہے جیسے رخت شوزہ شو۔

شوو - (Show) [انگ-۱-۱] [انگ-۱] تماشنا - نظارہ - نمائش۔
 (۲) دکھاوا - مزو - شپ ٹاپ۔

شوہ - (س-نڈ) [دیکھے] شہوا۔

شوہوئے - (Show Boy) [انگ-۱] نمائشی - دکھاوے کا۔

شوہو - (Shoe) [انگ-۱-۱] [انگ-۱] جوتا - نعلین - کفش۔

شوہوش - [فی-۱] [نڈ] شوہوش - نوشہ۔

شوہوتری - (۱-۵-۱) [مشت] ماگھ کی تیرہ تاریخ جب مہادیو کا منوار منایا جاتا ہے۔

شوہولنگ - (۱-۵-۱) [نڈ] مہادیو کے عضو تناسل کی موٹی، ہندو جس کی پوجا کرتے ہیں۔

شوہوال - (شوہ-وال) [ع-۱] [نڈ] مسلمانوں کا دسواں نمبر مہینہ عید الفطر کا مہینہ۔

شوہوالا - (ش-وا-لا) [۱-۵-۱] [نڈ] مہادیو کا استھان - شوہجی کا مندر۔

شوہواہد - (ش-وا-ہد) [ع-۱] [نڈ] شاہد کی حج (۱) گواہ (۲) مثالیں۔

شوہوت - (۳) ثبوت۔

شوہو - [فی-۱] [نڈ] دھلائی - دھونے کا عمل۔

شوہو پڑنا - شوہو کھانا - (۱-۵-۱) [مجادرہ] کپڑے کا دھویا جانا۔

شوہوہا - (س-۱) [مشت] حسن - روشنی - عبادت - خوبصورتی۔

شوہوخ - [ف-صف] (۱) طرار بے باک (۲) شہریرہ - گستاخ (۳) دل لائی یا

ظریف (۳) چمکیلا تیز (۵) نڈر - بے باک۔

شوہوخ چہنم - شوہوخ - (ف-صف) لے جیا - بے شرم - ڈھیٹ۔

شوہوخ رنگ - (ف-صف) تیز رنگ - چمکیلا - جو رنگ بہت تیز ہو۔

شوہوخ زبان - (ف-صف) عیب کی اور گستاخی کی باہیں کرنے والا - گستاخ۔

شوہوخ طبع - (طبعیت - مزاج) [ف-صف] (۱) تیز طبع (۲) عیب کا

(۳) خوش مزاج۔

شوہوشی - [ف-۱-مشت] (۱) چلبلا پن (۲) شرارت - ظرافت (۳) طنز و

بے قراری (۴) بے ادبی - گستاخی - (۵) رنگ کی تیزی - چمک۔

شوخی کرنا - (۱-۵-۱) [مجادرہ] شرارت کرنا - (۲) گھوسے کا اچھلنا کودنا۔

شوہور - (شوہ-ور) [۱-۵-۱] [نڈ] ہندوؤں کی بیچ ذات - خدمتی لوگ۔

شوہور - (ف-۱-۱) [نڈ] - شوہور - (۲) شوہور - (۳) کھاری نمک

(۴) عشق - جنوں (۵) خعلی - غصہ

شوہور اٹھنا - (۱-۵-۱) [مجادرہ] غل ہونا - شوہور ہونا۔

شوہور انگیز - (ف-صف) شوہر پیدا کرنے والا۔

شوہور اٹھنا - دھوم مڑنا۔

شوہور بخت - (ف-صف) بد نصیب - بد قسمت۔

شوہور برپا کرنا - (۱-۵-۱) [مجادرہ] بے حوصلہ چمانا۔

شوہور بوز - شوہور - توتڑ۔

شوہور دار و گریہ ہونا - (۱-۵-۱) [مجادرہ] لینا - پکڑنا کا غل چمانا۔

شوہور زمین - (ف-۱-مشت) وہ زمین جس میں نمک یا شورہ ہو - ناقابل زراعت زمین۔

شوہور قیامت - (ف-۱-۱) [نڈ] بے حد شور - قیامت کے دن کی مانند شور۔

شوہور کرنا - (مض-مرکب) غل چمانا۔

شوہور گنا - (مض-مرکب) کھار پیدا ہونا - زمین کا نمکین ہونا۔

شوہور محشر - شوہور شوہور - (ف-۱-۱) [مشت] قیامت کا شور - بہت شور۔

شوہور مشر - (شعب) [ف-۱-۱] [نڈ] فقہ و فساد - لڑائی - دنگا - ہنگامہ - بلوہ

شوہور ماہ - (شوہ-را-ہ) [ف-۱-۱] [نڈ] کھاری پانی

شوہور با - شوہور با - (شوہ-با-۱) [نڈ] پینلا سالن - پکے ہوئے گوشت کا پانی۔

شوہور ش - (شوہ-ش) [ف-۱-مشت] فقہ و فساد - بلوہ - ہنگامہ۔

شوہور ش برپا کرنا - (۱-۵-۱) [مجادرہ] ہنگامہ برپا کرنا - بغاوت کرنا۔

شوہورہ - (شوہ-رہ) [ف-۱-۱] [نڈ] سفید رنگ کا ایک مرکب جو پانی کو کھٹا کرتا ہے

اور بارود میں استعمال ہوتا ہے نمکین ہوتا ہے (۲) ایک قسم کی کھار

شوہورہ پشت - (ف-صف) سرکش - نافرمان - لڑاکا۔

شوہورہ پشتی - (ف-۱-مشت) لڑائی - جھگڑا - دنگا۔

شوہورے کی پتی یا فغلی - (کنایت) گوڑے رنگ کی نوجوان عورت۔

شوہورے میں جھانپنا شوہورے میں جھلنا - (۱-۵-۱) [مجادرہ] پانی کی صراحی کو نمک

اور شوہورے کے پانی میں رکھ کر کھنڈا کرنا۔

شوہورے - (شوہ-را) [ع-۱-۱] [نڈ] مشورہ - صلاح۔

شوہوری - (شوہ-ری) [اُر-صف] شوہر کرنے والا - شوہر ملا۔

شوہوریت - (شوہ-ری-ہیت) [ف-۱-مشت] کھاری پن۔

شوہوریدگی - (شوہ-ری-و-گی) [ف-۱-مشت] (۱) پریشانی - حیرانگی۔

(۲) دیوانگی - جنوں (۳) عشق - محبت۔

شوہوریدہ - (شوہ-ری-دہ) [ف-۱-مشت] (۱) پریشان - حیران (۲) جنونی

دپوارہ عاشق

شوہوریدہ بخت - (ف-صف) بد بخت - بد قسمت۔

شوہوریدہ حال (خاطر) [ف-صف] پریشان حال - دپوارہ و گشتہ۔

شوشاں - [ا۔ ا۔ مٹ] غور۔ ڈینک۔ نمائش۔
 شوہر - [شوہر] (ف۔ ا۔ ند) خاوند۔ میاں۔ مالک۔ جمع شوہران۔
 شوہری - (شوہر۔ ہ۔ ری) (ف۔ ص) شوہر سے منسوب۔
 شوہر - (ف۔ ا۔ ص) دھونا۔ مرکبات کے آخر میں جیسے
 پاشوہر۔

ش۔ ہ

شہدہ - [ف۔ ا۔ ند] شاہ کا محضف۔ بادشاہ (۲) دلدھا (۳) بڑا۔ ا۔ علی
 [مٹ] (۱) ڈھیل (۲) شاہ مندرج کو کشت۔ رو۔ حمایت۔ ترغیب
 اشتغال۔ بہکانا۔
 شہ باز - (ف۔ ا۔ ند) باز سے بڑا شکاری پرندہ۔ بڑا باز۔
 شہ بالا - شاہ بالا۔ (ف۔ ا۔ ند) لاکا جسے اچھے کپڑے پہنا کر دھلا کے بیچھے
 یا ساتھ بٹھاتے ہیں۔
 شہ بھنا - (۱) محاورہ) شطرنج کے بادشاہ کا کشت کی جگہ سے ہٹ جانا۔
 شہ پانا - (۱) محاورہ) اشارہ ناما ترغیب پانا (۲) بہکانے یا ڈھلانے میں آنا۔
 شہ پر - (ف۔ ا۔ ند) پرندے کے بازو کا سب سے بڑا پر۔
 شہ کوشت - شہزادہ (ق)
 شہ نیل - (ف۔ ا۔ مٹ) شطرنج میں نیل کی شہ۔
 شہ نوت - ایک میٹھا بھل اور اس کے درخت کا نام۔
 شہ تیر - (ف۔ ا۔ ند) بڑی کڑی۔ وہ مڑا چوٹی لٹھ جس پر کڑیاں رکھی جائیں۔
 شہ چال - شطرنج کے بادشاہ کی چال جو اور دھروں کے ختم ہونے کے
 بعد چلی جاتی ہے۔
 شہ خوباں - (ف۔ ا۔ ص) حسینوں کا بادشاہ۔ بہت خوبصورت۔
 شہ دینا - (۱) محاورہ) (۱) اگسانا۔ بہکانا (۲) شطرنج کے بادشاہ کو کشت دینا
 (۳) کنگوا بڑھانا (۴) بیجا تعریف کرنا۔
 شہ رخ - (ف۔ ا۔ مٹ) شطرنج میں رخ کی شہ۔
 شہ رگ - (ف۔ ا۔ مٹ) رگ جاں۔
 شہزادہ - (ف۔ ا۔ ند) بادشاہ کا لڑکا۔ شاہزادہ۔ جمع شاہزادگان۔
 شہزادہ زور - شاہ زور (ف۔ ص) بہت طاقتور۔ زور آور۔
 شہ سوار - شہسوار - (ف۔ ا۔ ند) گھوڑے کی سواری کا ماہر۔
 شہکار - (ف۔ ا۔ ص) بہترین کام (۲) دھوکا (۳) بونی ہوئی زمین۔
 شہ لولاک (ف۔ ا۔ ند) کنایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم
 شہ مات - (ف۔ ا۔ مٹ) شطرنج کی بازی میں کشت قے کر شاہ کو مات دینا۔
 شہنائی - (ف۔ ا۔ مٹ) نفی۔ ایک ساز جسے منہ سے بجاتے ہیں۔
 شہنشاہ - (ف۔ ا۔ ند) بادشاہوں کا بادشاہ۔ قیصر۔
 شہ نشین - (ف۔ ا۔ مٹ) بادشاہ کے بیٹھنے کی جگہ۔ مکان کی کھڑکی کے
 آگے بڑھا کر بنائی ہوئی جگہ۔
 شہسوار - (ف۔ ص) بادشاہ کے قابل۔ (۲) بہت قیمتی موتی۔

شوریدہ دماغ - (مزاج۔ ہ۔ ص) دیوانہ۔ سودائی۔ مجنون۔
 شوریدہ روزگار - (ف۔ ص) پریشان حال۔ بے سردسامان۔
 شوریدہ مہری - (ف۔ ا۔ مٹ) دیوانگی۔ جنون۔
 شوشہ - (شو۔ شد) [ف۔ ا۔ ند] (۱) ریزہ۔ ذرہ۔ ٹکڑہ (۲) حرف کا سرا۔
 (۳) وہ علامت جو ہلکے ہوز کے نیچے بنا دیتے ہیں (۴) [ا۔ ا۔ مٹ] جھکو
 کی بات۔ شکوہ۔ انوکھی بات۔
 شوشرہ چھوڑنا - (۱) محاورہ) فساد انگیز بات کہنا۔ انوکھی بات کہنا۔
 شوفر - (Chaufeur) (شو۔ فر) [ا۔ ا۔ مٹ] موٹر چلانے
 والا ملازم۔ ڈرائیور۔
 شوق - [ع۔ ا۔ ند] (۱) خواہش۔ آرزو۔ تمنا۔ اشتیاق (۲) رغبت۔
 میل [ا۔ ا۔ مٹ] شغل۔ کام (۳) جوش۔ سرگرمی (۴) محبت۔ عشق۔
 (۵) چاٹ۔ چیکا۔ اٹنگ (۶) دھن۔ ترنگ (۷) حق یا کھانے کی
 کوئی نئے پیش کی جائے تو کہتے ہیں شوق کیجیے (۸) دریافت کرنے کی
 خواہش (۱۰) لطف۔ محبت۔
 شوق بڑھانا تیز ہونا۔ (مص مرکب) شوق زیادہ ہونا۔
 شوق پورا آنا۔ (۱) محاورہ) شوق ہونا۔ جی جا ہونا۔ خواہش کا پیدا ہونا۔
 شوق سے - (۱) متعلق فعل (۱) دل سے۔ کمال رغبت سے (۲) خوشی سے
 (۳) بے خوف ہو کر (۴) اپنی مرضی سے۔ اپنے ارادے سے۔
 شوقین - (شو۔ قین) [ا۔ ا۔ ص] (۱) شائق صاحب شوق (۲) مشتاق
 خواہش مند (۳) عادی جوگر (پھللا۔ وگھلا۔ ۵) جماعتی تماش میں
 شوقین بڑھیا چٹائی کا لہنگا۔ (۱) شغل) بے عمل بناؤ سنگار منظر میں نمائش
 کی تمنا۔
 شوقین بی بی کمل کی چولی، آگ لگی مہلتی پھرے۔ (۱) مثل) غریب عورت
 اپنی حیثیت سے بڑھیا کپڑے پہننے کو کہتے ہیں۔
 شوقین مزاج - (ف۔ ص) وہ جسے اچھے کپڑے پہننے اور کانا
 سننے کا شوق ہو۔
 شوقیہ - (شو۔ قیہ) [ع۔ ا۔ مٹ] دل بہلانے کے لیے۔ شوق سے (۲)
 منسوب۔ شوق۔
 شوکت - (شو۔ کت) [ع۔ ا۔ مٹ] (۱) زور۔ قوت (۲) دبدبہ
 وعب۔ داب (۳) مرتبہ۔ شان۔ شکوہ۔
 شوگر - (Suqar) (شوگر) [ا۔ ا۔ مٹ] [ا۔ ا۔ مٹ] کھا ہوا چینی شکر
 شوگر آنا - (۱) محاورہ) پیشاب میں شکر آنا۔ ذیابیطس ہونا۔
 شوگر - [ق۔ ا۔ مٹ] گوشت آمیز پھیرٹی۔
 شوم - [ع۔ ص] (۱) محسوس (۲) کجسوس۔ بخیل
 شوم بخت - (ع۔ ص) بد نصیب۔ بد قسمت
 شوم طبع - (ع۔ ص) بد مزاج (۲) کجسوس۔ بخیل
 شوم قدم - (ع۔ ا۔ مٹ) سہ قدم۔ وہ شخص جس کا قدم کجسوس ہو۔
 شومی - [ف۔ ا۔ مٹ] بدبختی۔ خوست۔
 شومی بخت - شومی قسمت۔ شومی تقدیر۔ (ف۔ ا۔ مٹ) بد نصیبی
 خوست۔

شہاب - (ش- باب) [ف- ۱- مذ] نہایت سُرخ رنگ جو کسٹم کو بھگو کر
ٹیکانے کے بعد حاصل ہوتا ہے۔

شہاب - (ش- باب) [ع- ۱- مذ] (۱) کو۔ لیٹ (۲) وہ ستارہ جو
آسمان سے گرتا ہوا دکھائی دیتا ہے (۳) روشن ستارہ (۴) شعلہ جھپکنے والی آگ
شہاب ثاقب - (ع- ۱- مذ) وہ چمکتا ہوا ستارہ جو رات کو ٹوٹتا ہے۔
شہابی - (ف- ۱- مثن) سُرخ - شہاب کے رنگ کا۔

شہادت - (ش- ہا- دت) [ع- ۱- مثن] (۱) گواہی (۲) راہِ خدا میں
شہید ہونا (۳) خدا نے تعالیٰ کی وحدانیت اور رسول مقبول کی رسالت
کا سچے دل سے آوارگ کرنا (۴) حکمہ شہادت۔

شہادت دینا - (مص مرکب) گواہی دینا۔
شہادتِ روتیت - (ع- ف- ۱- مثن) چننم دیدگواہی۔
شہادتِ سمعی - (ع- ف- ۱- مثن) سنی سنائی گواہی۔
شہادت کی انگلی - (۱- مثن) داہنے ہاتھ کے انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی۔
شہادتِ مقبول - (ع- ف- ۱- مثن) وہ گواہی جو دوسرے کے
بیان کے حوالے سے ہو۔

شہادت نامہ - (۱) تحریری شہادت جو داخل کی جائے (۲) اہل تشیع پر
پرکھنے شہادت لکھ کر دوسے کے کفن میں رکھنے میں (۳) وہ کتاب جس
میں حضرت امام حسین کی شہادت کا حال ہو۔

شہامت - (ش- ہامت) [ع- ۱- مثن] بہادری - دلیری - شجاعت
شہانہ - (ش- ہا- مذ) [ف- صفت] شانانہ کا مخفف (۲) شادی کا جوڑا۔
(۳) ایک قسم کا شادی کا گیت - ایک قسم کی گت۔

شہانی - (ش- ہانی) [ا- صفت] دھن سے منسوب (۲) شانانہ بادشاہ
سے منسوب - عمدہ - اعلیٰ۔

شہانی جوڑیاں - (۱- مثن) دھن کی جوڑیاں سُرخ رنگ کی جوڑیاں قیمتی جوڑیاں
شہانی ہندی - (ف- ۱- مثن) سُرخ رنگ کی ہندی - گہری ہندی۔
شہد - (ع- ۱- مذ) (۱) وہ بیٹھا شیر جو مال کی کھلیاں جمع کرتی ہیں (۲)
[ا- صفت] نہایت تیریں۔

شہد سہاگہ، گھی، مری دھات کا جی - [ا- مثن] [ا- صفت] ایسی گروں کے
خیال میں ان تین چیزوں سے کشتہ شدہ دھات دوبارہ اپنی اصلی
حالت پر آجاتی ہے۔

شہد کی چھری - (۱- صفت) بیٹھی چھری - زبان کا بیٹھا دل کا کھوٹا - وہ جو دوستی
کے پرے میں دشمنی کرے - منافق - دغا باز - مکار۔
شہد کی مکھی - (ع- ۱- مثن) وہ مکھی جو منہ جمع کرتی ہے اور چھتہ بناتی ہے
(۲) لاپچی بھریں (۳) وہ شخص جو جھوٹ جانتے۔

شہد گھولنا - (۱- محاورہ) شیریں زبان ہونا - بیٹھی بیٹھی باتیں کرنا۔
شہد لگا کر لگک ہو جانا - (۱- محاورہ) فساد کی بنیاد ڈال کر لگک ہو جانا
لڑوانا۔

شہد لگا کر چالو - (طنزاً) کمال اغیاط سے رکھو۔

شہداد - (ش- ہا- ۱۵) [ع- ۱- مذ] شہد کی جمع - شہید ہونے والے۔
شہدا - (ش- ۱۵) [ا- مذ] پیمانہ بدعاش - غنڈہ (۲) غریب - مسکین

شہدین - شہدینا - (ہ- ۱- مذ) بچپن - بدعاشی۔
شہر - (ع- ۱- مذ) قمری مہینہ - ماہ - جمع : اشہر - مشہور
شہر - (ف- ۱- مثن) بڑی آبادی - بلدہ - مگر۔

شہر آشوب - (ف- ۱- مذ) وہ نظم جس میں کسی شہر کی پریشانی و بربادی کا ذکر ہو۔
شہر بدر کرنا - (ف- صفت) حلاوت کرنا - دس نکلا دینا۔
شہر بند - (ف- ۱- مذ) فضیل - شہر کی چار دیواری - (۲) نظر بند۔
شہر نیاہ - (ف- ۱- مثن) فضیل شہر کی چار دیواری
شہر تہرا - [ا- صفت] وہ شخص جو نام شہر کی تہر رکھے - گھر گھر کی تہر
رکھنے والا۔

شہر خوشن - (ف- ۱- مذ) قبرستان - گورستان۔

شہر دار - (ف- ۱- مذ) شہر کا رہنے والا۔

شہر داری - [ف- ۱- مثن] شہر میں رہنے کے فرائض یا تعلقات۔

شہر کی دانی - [ا- مثن] گھر گھر کی خبر رکھنے والی عورت۔

شہر گرد - شہر گشت - (ا- مذ) شہر میں گشت کرنے والا۔

شہر میں آوٹ بڈنام - (۱- مثن) (۱) وہ شخص جو کسی عیب کے باعث مشہور
ہو (۲) وہ بدنام آدمی جس سے بُری بات منسوب کی جائے۔

شہر یار - (ف- ۱- مذ) بادشاہ۔

شہرت - (ش- رت) [ع- ۱- مثن] (۱) افواہ - شہرہ - چرچا (۲) ناموری

بیکناکی (۳) بڑائی - بڈنامی۔

شہرت اٹھانا - (۱- محاورہ) شہرت پھیلنا - شہرت پانا۔ (۱- محاورہ) مشہور ہونا - حاصل کرنا۔

شہرت پھینچنا - (۱- محاورہ) بہت دوزخ و ننگ مشہور ہونا۔

شہرت پیدا کرنا (حاصل کرنا) نام پیدا کرنا - مشہور ہو جانا۔

شہرت ہوتنا - (۱- محاورہ) دھوم ہونا - مشہور ہونا۔

شہرت یافتہ - (ف- صفت) مشہور معروف (۲) جس کی دھوم ہو (۳)
جس کی نیک نامی یا بڈنامی ہو جی ہو۔

شہرہ - (ش- رت) [ع- ۱- مذ] آوازہ - دھوم دھام - غلغلہ

شہرہ آفاق - شہرہ آنام - جہاں بھر میں مشہور مشہور عالم۔

شہرہ دار - (۱- محاورہ) شہرت پھیلنا - بڈنامی پھیلنا۔

شہرہ ور - (ع- ف) مشہور - نامور۔

شہرہ ہونا - (۱- محاورہ) نام ہونا - مشہور ہونا۔

شہری - (ش- ری) [ف- صفت] (۱) شہر سے منسوب (۲) شہر کا باشندہ

شہری آزادی - (ف- ۱- مثن) تقزیر، سزا اور اجتماع کی آزادی - وہ بنیادی
حقوق جو ملک کے رہا شدہ کو حاصل ہوں - جمہوری حقوق۔

شہری حقوق - [ف- ۱- مذ] بنیادی حقوق - جمہوری حقوق - وہ آزادی جو
ملک کے باشندوں کو آزادی کے قانون حاصل ہو۔

شہریت - (ش- ری - بیت) [ف- ۱- مثن] (۱) شہر کا باشندہ ہونے کی
حالت (۲) جمہوری حقوق (۳) کسی ملک کا شہری ہونا۔

شہر کا را - (ش- کا - را) [ا- صفت] بدکار اور بد زبان عورت۔

شہلا - (ش- لا) [ع- ۱- مثن] (۱) وہ عورت جس کی آنکھیں بھڑکی مانند
ہوں (۲) سیاہی لیے بھوری آنکھ (۳) نرگس کے پھول کی ایک قسم

شہیقہ - (ع - ۱ - مٹ) کنایتاً کالی کھانسی۔

ش - سی

شے - (ع - ۱ - مٹ) [(۱) چیز (۲) نایاب چیز (۳) معاملہ - واقعہ -

شے لطیف - (ع - ۱ - مٹ) [سمجھ بھول -

شے لطیف کی کمی ہونا - (۱ - محاورہ) عقل اور سمجھ بوجھ کی کمی ہونا - بے ذوق ہونا -

شے مجیعہ - (ع - ۱ - مٹ) [بھی ہوئی چیز

شے تنازعہ - (ع - ۱ - مٹ) [وہ چیز جس کی بابت جھگڑا ہو -

شے مڑھوترے - (ع - ۱ - مٹ) [وہ شے جو تہن رکھی گئی ہو -

شے مکقولہ - (ع - ۱ - مٹ) [وہ شے جو حاضنت میں دی گئی ہو -

شے ملنا - (۱ - محاورہ) مدد ملنا - سہارا ملنا -

شے موہورہ - (ع - ۱ - مٹ) [وہ شے جو بہہ کی گئی ہو -

شیاطین - (ش - یا طین) [شیطان کی جمع -

شیاطین الالہ - (ع - ۱ - مٹ) [آدمی جو شیطان کی طرح بہکتے ہیں -

شیات - (ش - یات) [(ع - ۱ - مٹ) [دو امیں جو باہم کوٹ کر اکٹھوں میں

اور دیگر مقامات پر لگاتے ہیں - شائد کی جمع -

شیدب - (ع - ۱ - مٹ) [(۱) بڑھایا - (۲) بالوں کی سفیدی -

شیدٹ - (Sheet) [(ٹنگ - ۱ - مٹ) [(۱) کاغذ کا تختہ - تاؤ - ورق

(۲) دھات یا پانی کی چادر (۳) پنگ کی چادر -

شیخ - (ع - ۱ - مٹ) [(۱) بوڑھا آدمی (۲) سر مڑشد - بزرگ (۳) مذہبی علوم

میں ناطی (۴) سر کردہ - پیشوا (۵) خانقاہ کا سردار (۶) سجادہ نشین -

(۷) مسلمانوں کی ایک ذات (۸) عرب کا سردار - جمع - شیوخ - مشائخ -

شیخ الاسلام - (ع - ۱ - مٹ) [سب سے بڑے پیشوائے دین - مفتی اعظم -

شیخ الحدیث - (ع - ۱ - مٹ) [یونیورسٹی یا دانش گاہ کا سربراہ - داس چانسلر -

شیخ الرئیس - (ع - ۱ - مٹ) [بڑے اعلیٰ سینا کا لقب -

شیخ الشیوخ - (ع - ۱ - مٹ) [تمام عالموں اور دانشوروں کا سرکردہ - پر مشائخ -

شیخ جی - (ع - ۱ - مٹ) [شیخ کو طنز یا تعظیم سے کہتے ہیں (۲) شیخ صاحب

(۳) زاہد اور عابد کو طنزاً کہتے ہیں -

شیخ حلی - (ع - ۱ - مٹ) [بیوقوف (۲) ایک فرضی شخص جس کے قصے بہت مشہور ہیں

شیخ حلی کا منصوبہ - (۱ - مٹ) [وہ منصوبہ جو بالکل دیہی ہو محض خیالی بات -

شیخ چند ڈال نہ چھوڑے رکھی نہ چھوڑے بال - (۱ - مٹ) [اس شخص کے متعلق

کہتے ہیں جو بہت حریف ہو -

شیخ ڈونڈو یا ڈونڈوں - (۱ - مٹ) [بندہ تھانے کا ٹوٹکا جس میں کڑے کا ایک

مٹا فرینا کر اور ایک ٹھٹھی اس کی کڑے باندھ کر تازش کے پانی

میں کڑی کے سہارے کھڑا کر دیتے ہیں جاہلوں کے نزدیک اس سے

بارش بھٹم جاتی ہے -

شیخ سدو - (۱ - مٹ) [جاہل عورتوں کا ایک فرضی ولی باجن -

شیخ کا بکرا - (۱ - مٹ) [وہ بکرا جو شیخ سدو کے نام پر ذبح کرتے ہیں -

شیخ بجدی - (ع - ۱ - مٹ) [شیطان کا لقب -

جو زرد یا سیاہی مائل ہوتا ہے -

شہنا - شہنائی - (شہنا - شہنا - نائی) [(۱ - مٹ) [(۱) لغیری (۲)

بانسری - (۳) الغوزہ -

شہنشاہ - شہنشاہ - (شہنشاہ - شہنشاہ - شہنشاہ) [(۱ - مٹ) [(۱) بادشاہ

کا شاہ - بادشاہوں کا بادشاہ - بڑا بادشاہ -

شہنشاہی - (شہنشاہی - شہنشاہی) [(۱ - مٹ) [(۱) بادشاہی (۲) بادشاہ

سے نسبت رکھنے والی شے -

شہنشاہیت - (شہنشاہیت - شہنشاہیت) [(۱ - مٹ) [(۱) سامراج -

دوسرے ملکوں پر قبضہ کرنا - امپیریلزم - بلوکیت -

شہور - (ق - ۱ - مٹ) [شہور -

شہوات - (شہوات - وائت) [(ع - ۱ - مٹ) [(۱) شہوت کی جمع (۲) خواہشیں

لذتیں -

شہوات نفسانی - (ق - ۱ - مٹ) [جنسی خواہش گھٹیا خواہشیں -

شہوانی - قہومی - (شہوانی - شہوانی) [(ع - ۱ - مٹ) [شہوت سے متعلق -

شہوت - (شہوت - وائت) [(ع - ۱ - مٹ) [(۱) خواہش - آرزو - حصول لذت

کا شوق (۲) خواہش جماع جنسی خواہش - جمع - شہوات -

شہوت انگیز - (ع - ۱ - مٹ) [خواہش نفسانی کو ابھارنے والا -

شہوت پرست - (ع - ۱ - مٹ) [جنس پرست پچائش -

شہود - (شہود - ہجور) [(ع - ۱ - مٹ) [(۱) حاضر ہونا (۲) [۱ - مٹ] [شاہد

کی جمع (۳) اہل تصوف کی اصطلاح میں وہ درجہ جس میں جلوہ حق بلکہ

ہر شے میں حق نظر آئے -

شہودی - (شہودی - ہجوری) [(ع - ۱ - مٹ) [شہود سے نسبت رکھنے والا -

شہور - (شہور - ہجور) [(ع - ۱ - مٹ) [جمع شہر - جینے -

شہور معلومات - (ع - ۱ - مٹ) [مسلمانوں کے چار مقصد میں سے - حرم - رجب -

ذیقعدہ - ذوالحجہ - بعض رجب کی بجائے شوال کو مانتے ہیں -

شہی - (شہی - ہجوری) [(۱ - مٹ) [بادشاہی - سلطانی -

شہید - (شہید - ہجوری) [(ع - ۱ - مٹ) [(۱) خدا کی راہ میں قربان ہونے والا

(۲) وہ شخص جس کے علم سے کوئی چیز پوشیدہ نہ ہو (۳) مقنول

کشتہ - (۴) عاشق - قدا - قربان -

شہید بکرا - (ع - ۱ - مٹ) [حضرت امام حسینؑ -

شہید ناز - (ع - ۱ - مٹ) [عاشق -

شہید وفا - (ع - ۱ - مٹ) [وہ جس سے وفا داری کے باعث قتل ہو کر نہ تار

پائی - انتہائی وفادار -

شہید ہونا - (۱ - محاورہ) [راہ خدا میں مارا جانا (۲) مرنا - انتقال کرنا (۳) عاشق ہونا -

شہید ہونا - (شہید ہونا - ہجوری) [(ع - ۱ - مٹ) [(۱) شہید ہونے کے لیے تیار (۲)

سرخ - (۳) تلاش میں -

شہیدی امروہ - (ع - ۱ - مٹ) [وہ امروہ جس کا گودا سرخ ہو -

شہیدی ترپوز - (ع - ۱ - مٹ) [نہایت پکا اور اند سے لال ترپوز

شہسیر - (شہسیر) [(ع - ۱ - مٹ) [مشہور نامور

شہیقہ - (ع - ۱ - مٹ) [گدھے کی بھاری آواز جو آخر میں بھکتی ہے -

اس کی پشت پر لگانے میں۔ (۲) سلائی جو کتاب اور مچھوں پر کی جاتی ہے۔ (۳) انتظام سلسلہ۔

شیرازہ باندھنا۔ (۱) محاورہ) کتاب کی سلائی کرنا منتشر جزوں کو بجا کرنا۔

شیرازہ بکھرنے والا۔ محاورہ) (۱) منتشر ہونا (۲) اتری پڑنا (۳) انتظام پڑنا۔

شیرازہ بندی۔ (ف-۱) مش (۱) جلد بندی (۲) انتظام۔

شیرازی۔ (ش-ی-را-زی) [ف-صف] (۱) شیراز کا۔ شیراز سے منسوب (۲) ایک قسم کا کبوتر۔

شیرینی۔ [ا-ر-امث] شیر کی مادہ۔

شیرینی۔ (ش-ی-ر-نی) [ق-۱-امث] مٹھائی۔ شیرینی۔

شیروں کا قتل کرنے نے دھویا۔ (۱) (مث) پیچے ہاقد مند دھوئے بغیر کھا کھا تو طعنا لگتے ہیں۔

شیروں کے شیر ہی ہونے میں۔ (۱) (مث) بہادروں کی اولاد بہادری ہوتی ہے۔

شیروں کے متہ چڑھنا۔ (۱) محاورہ) بہادروں کے ساتھ مقابلہ کرنا۔ زبردست کے ساتھ اڑنا۔

شیرہ۔ (ش-ی-ر-ہ) [ف-۱-ذ] (۱) توام۔ چاشنی (۲) پیلا کر جو بنبا کو میں ڈالا جاتا ہے سلاب۔

شیرہ انگور۔ [ف-۱-ذ] انگوری شراب۔

شیریں۔ (ش-ی-ر-یں) [ف-صف] (۱) میٹھا خونگوار (۲) عزیز۔ پیارا۔ (۳) نرم۔ ملائم۔ رس دار (۴) فریاد کی معنوی کا نام۔

شیریں ادا۔ (ف-صف) وہ جس کی ادائیں پسند ہوں۔ اچھی اداؤں والا۔

شیریں بیاں۔ (ف-صف) خوش بیاں خوش کلام۔

شیریں خرام۔ (ف-صف) پسندیدہ چال چلنے والا۔

شیریں دیاں (دین) [ف-صف] میٹھی باتیں کرنے والا (۲) جس کا بوسہ لینے ہوئے لطف آئے۔

شیریں زبان۔ شیریں سخن۔ شیریں کلام۔ شیریں نفس۔ شیریں منقار۔ (۱) (صف) خوش گفتار۔ فصیح۔

شیریں لب۔ (ف-صف) خوش گفتار۔ فصیح۔

شیریں نوا۔ (ف-صف) مٹھلیا۔ خوش آواز۔

شیریں نہ شو وہیں بجلوہ لفتن۔ (ف-مث) کسی چیز کا محض نام لینے سے اس کا مزہ نہیں آتا۔

شیرینی۔ (ش-ی-ری-نی) [ف-۱-امث] (۱) مٹھائی (۲) مٹھاس۔ حلاوت۔

شیرینی تھری۔ (ف-۱-امث) تھری کا دل پسند ہونا۔

شیش۔ [ف-۱-ذ] شیشے کا مخفف۔ بطور سابقہ استعمال ہوتا ہے جیسے شیش محل۔

شیش گر۔ (شیش گر) [ف-صف] شیشے کی چیزیں بنانے والا۔

شیشم۔ (ش-ی-شم) [ا-ر-۱-ذ] ایک درخت جس کی کڑی نہایت وزنی اور مضبوط ہوتی ہے۔

شیش محل۔ (شیش-م-حل) [ا-ر-۱-ذ] وہ مکان جس میں چاروں طرف شیشے لگے ہوں۔

شیش محل کا گنا۔ (۱) مذ (۱) کتا شیش میں جاؤں طرف توں کو دیکھ کر کھل جانا ہے بکھلا یا ہو گنا (۲) باؤ لانتا۔ (۳) دیوانہ آدمی۔

شیش ناگ۔ (س-۱-ذ) ہندوؤں کے عقیدے کے مطابق ایک بڑا سانپ جس کے تزار سر ہوتے ہیں اور یہ دنیا کو اٹھانے ہوتے ہے (۲) بڑا سانپ۔

شیشہ۔ (ش-ی-شہ) [ف-۱-ذ] (۱) آئینہ (۲) کاچ (۳) بوتل۔ خراب۔ (۴) آری کا آئینہ۔

شیشہ باز۔ (ف-صف) شعبہ باز (۲) رقاصوں کا ایک گروہ (۳) ٹھگ۔ مکار۔

شیشہ لیکھتہ۔ (ش-ی-شہ) [ف-۱-ذ] (۱) آئینہ (۲) کاچ (۳) بوتل۔ خراب۔ (۴) آری کا آئینہ۔

شیشہ کو جوڑنا مشکل ہے۔ اسی طرح جب دل میں کسی قسم کا میل آجائے تو صفائی مشکل ہوجاتی ہے۔

شیشہ دکھانا۔ آئینہ دکھانا۔ (۲) مناجا میں جوتے کا تلا دکھانا کرنا ٹانگتے ہیں۔

شیشہ دکھائی۔ (۱) محاورہ) وہ انعام جو جانی کو آئینہ دکھانے پر دیا جاتا ہے۔

شیشہ دل۔ (ف-۱-ذ) نازک ہونے کی وجہ سے دل کا استغفار شیشہ سے کیا جاتا ہے۔

شیشہ دل جو کرنا۔ (۱) محاورہ) رنج پہنچانا۔ دکھ دینا۔

شیشہ ساخت۔ (ف-۱-ذ) (۱) ریت گھڑی۔ بانو گھڑی۔

شیشے کا بال۔ (۱) مذ) باریک درز جو شیشے کو چوٹ لگنے سے آجاتی ہے۔

شیشے کا دیو۔ (۱) مذ) شراب۔ مے۔

شیشے کی پچکائیاں۔ (۱) (مث) بوتل یا قزاق سے ذہن چیز کے نکلنے پر جو آواز تڑک تڑک کر پیدا ہوتی ہے۔

شیشے میں آنا۔ (۱) محاورہ) تلو میں لانا۔ مسخر کرنا۔ پرچانا۔

شیشے میں ڈھالنا۔ (۱) محاورہ) مطیع کرنا۔ مسخر کرنا۔

شیشی۔ (ش-ی-شی) [ا-ر-۱-امث] کاچ کا چھوٹا سارنق۔ چھوٹی سی بوتل۔

شیشی سگھانا۔ (۱) محاورہ) بیہوشی کی دوا سگھانا۔

شیطان۔ (ش-ی-ط-ان) [ع-۱-ذ] فرشتوں کا معلم جس نے خدا کی نافرمانی کر کے حضرت آدم کو سمجھایا اور راندہ گیا (۲) نافرمان۔ سرکش باغی (۳) پلید۔ خبیث۔ بدکار (۴) مردود۔ نکالا ہوا (۵) گمراہ۔ بدراہ (۶) شریر۔ بد ذات۔ فتنہ انگیز۔ فسادی۔ (۷) جھگڑا۔ فساد (۸) غصہ۔ غصب۔

شیطان اترنا۔ (۱) محاورہ) (۱) غصہ دور ہونا (۲) شرارت رفع ہونا۔

شیطان اچھلنا۔ (۱) محاورہ) شرارت سوجھنا۔

شیطان چڑھنا (سوار ہونا)۔ (۱) محاورہ) غصہ یا ضد چڑھنا۔ (۲) جن جنیت کا سایہ ہونا۔ (۳) شرارت سوجھنا۔

شیطان چوڑی۔ (۱) شرارتی آدمیوں کی ٹولی۔

شیطان سے زیادہ مشہور۔ بہت بدنام۔ بہت مشہور۔

شیطان کا امان مانگنا۔ (۱) محاورہ) ایسا شریر ہونا کہ شیطان بھی بناہ مانگے۔

شیطان کا کان میں پھونک دینا۔ (۱) محاورہ) شیطان کا بہکا دینا (۲) شیطان کا دل میں غرور پیدا کرنا۔

شیطان کا لشکر۔ (۱) مذ) شریر لوگوں کا مجمع۔

شیطان کو آئے دیر نہیں لگتی۔ (۱) (مث) جھگڑا کھڑا ہونے یا غصہ آنے میں

در نہیں لگتی۔

شیطان کی آنت - (۱۔ مٹ) (۱) بڑی لمبی چیز (۲) طول طویل قصہ (۳) وہ چیز جس کا سلسلہ دُر تک پھیلا ہو۔

شیطان کی پھٹکار - (بددعا) کوئی بُرا کام کرے تو کہتے ہیں۔

شیطان کی خالہ - (۱۔ مٹ) لڑائی جھگڑا، ادینے والی عورت۔

شیطان کی ڈور - (۱۔ مٹ) کھڑکی کے جالے کا تار جو اکثر راستوں میں اُڑاتا رہتا ہے اور آنکھ میں پڑھانے سے سخت تکلیف ہوتی ہے۔

شیطان کے کان بہرے - (۱۔ مثل) شیطان نہ سنے۔ نما عاز کے کان تک یہ بات نہ پہنچے (۲) خدا کرے یہ خیر چھوٹ ہو۔

شیطان کے کان کاٹنا - (۱۔ محاورہ) شیطان سے بڑھ کر کام کرنا۔ شیطان سے زیادہ شریا اور فتنہ انگیز ہونا۔

شیطان کے گھرولی - (۱۔ مثل) نالائق شخص کی اولاد کا نیک ہونا۔

شیطان مجسم - (ع۔ صف) سرتاپا شریہ۔ بے حد شریہ۔

شیطان نے لڑکوں سے پناہ مانگی - (۱۔ مثل) لڑکے شیطان سے بھی زیادہ شریہ ہوتے ہیں۔

شیطان ہر جگہ موجود ہے - (۱۔ مثل) سامان گناہ ہر جگہ موجود ہوتا ہے۔ ہر جگہ انسان کے دل میں بڑے دوسے آتے رہتے ہیں۔

شیطانی - (شے۔ ط۔ نی) [۱۔ صفت] (۱) شیطان سے منسوب شیطان کا (۲) اختلام جو عورتوں کو ہو جائے۔

شیطانی لشکر - (۱۔ مذ) شریہ لڑکوں کا جمع۔

شیطانی چرخا - (۱۔ مذ) بڑی چیز یا بُرا شخص۔

شیطننت - (شے۔ ط۔ نشت) [۱۔ مٹ] (۱) شرارت۔ خجانت بدی (۲) شرارت (۳) فتنہ ساز۔

شییعہ - (شے۔ ع۔ م) [ع۔ ۱۔ مذ] (۱) گروہ (۲) مسلمانوں کا وہ فرقہ جو حضرت علیؑ کو پیغمبر اسلام کے بعد خلافت کا حق دار مانتا ہے (۲) امامیہ مذہب کا پیرو۔

شعیب - (شے۔ ع۔ م) [ع۔ صفت] شیعیہ فرقہ سے منسوب۔

شیعیہ فنگلی - (شعیف۔ مٹ۔ مگی) [ن۔ ۱۔ مٹ] (۱) عشق۔ زلفنگی (۲) حیرانی مدہوشی۔ پریشانی۔

شیعیفتہ - (شعیف۔ نٹ) [ن۔ صفت] (۱) عاشق۔ فریفتہ (۲) متویر۔ پریشان۔ (۳) اردو کے شاعر نواب مصطفیٰ خاں کا تخلص۔

شیللا - (شے۔ لا) [ن۔ ۱۔ مٹ] ملل۔

شیلڈ - (انگ۔ ا۔ مٹ) سپر۔ ڈھال (۲) انعامی نشان۔

شیلف - (Shelf) (انگ۔ ا۔ مٹ) [ن۔ صفت] طاق۔ الماری۔ خانہ۔

شیسہ - (ش۔ ی۔ م) [ع۔ ۱۔ مٹ] شیشہ کی جمع۔ عادتیں خصلتیں۔

شیشین - (ع۔ ۱۔ مذ) [ع۔ ۱۱] عیب۔ بُرائی (۲) عیب لگانا۔ جمع: شیشون۔

شیشین - [ع۔ ۱۔ مذ] حرف "ش" کا تلفظ۔

شیشین قاف درست نہ ہونا - (۱۔ محاورہ) تلفظ صحیح نہ ہونا۔

شیشو - (Shave) (انگ۔ ۱۔ مذ) حجامت۔

شیشو شیلوا - [ع۔ ۱۔ مذ] ہندوؤں کا بڑا دوتا۔ مخلوقات کو فنا کرنے والا۔

شیشوا - (شے۔ لا) [ن۔ صفت] فیصیح۔ بلیغ۔

شیشو زبان (بیان) - [ن۔ صفت] خوش بیان۔ فیصیح۔ بلیغ۔

شیشوخ - (ش۔ ی۔ م) [ع۔ ۱۔ مذ] (۱) شیخ کی جمع (۲) مشائخ (۳) بزرگ (۴) استاد معلمین۔

شیشوخت - (ش۔ ی۔ مٹ) [ع۔ ۱۔ مٹ] بڑھایا۔

شیشوع - (ش۔ ی۔ م) [ع۔ ۱۔ مذ] (۱) ظاہر ہونا (۲) جاری ہونا۔

(۳) پھیلنا۔ اشاعت۔

شیشیون - (شے۔ ی۔ م) [ن۔ ۱۔ مذ] غم۔ ماتم۔ سوگ۔ فوجہ۔ آہ و زاری۔

نالہ۔ فریاد۔ واویلا۔

شیشوہ - (شے۔ وہ) [ن۔ ۱۔ مذ] (۱) طور۔ طریق۔ ڈھنگ۔ انداز۔

دستور (۲) ناز۔ کرشمہ۔

شیشوہ گری۔ نازخزہ۔ عیشوہ۔

ص

ص۔ (صاد۔ صواد) [ع۔ ا۔ مذ] اردو کا بیسواں۔ فارسی کا سترھواں اور عربی کا چودھواں حرف۔ حساب الجویں اس کے نو سے عدد فرض کئے گئے ہیں۔ اسے صاد پہلے یا صاد غیر منقوطہ بھی کہتے ہیں۔ آدھا ص یعنی بلا د اڑے کا (ص صیح) منظور شدہ اور صقی اللہ علیہ وسلم کے تخفیف کی علامت ہے۔ قرآن شریف کی ایک کُورت کا نام۔ شیشی حرف ہے۔ اگر اس کے پچھلے ال ہو تو لام نہیں پڑھا جائے گا۔ البتہ ص کو مشدّد کر دیا گیا جیسے القیید۔

ص - ۱

صابر۔ (صا۔ بڑ) [ع۔ صفت] (۱) صبر کرنے والا۔ مثل۔ بربار (۲) حضرت ایوب کا لقب جن کا صبر ضرب امتل ہے۔ جمع : صابریں۔

صابری۔ (صا۔ ب۔ ری) [ع۔ ف۔ ا۔ مثن] (۱) صابر سے منسوب (۲) فقرا کا ایک گروہ جو حضرت تیبہ علاؤ الدین علی احمد صابری سے منسوب ہے۔

صابین۔ (صا۔ بن) [ع۔ ا۔ مذ] عربی لفظ صابون کا مؤرد۔ میل صاف کرنے کی چیز جو نیل۔ سوڈا اور جیل وغیرہ سے بنائی جاتی ہے۔

صابین سامتہ میں کھلنا۔ صابین سامتہ ہوتا۔ (۱) محاورہ (بہینھا سیٹھا منہ ہونا۔ پھیکا پھیکا اور مدد اٹھنا منہ ہونا۔

صابین کا تار۔ (۱) مذ [مثال مگر آلودگی سے پاک تعلقات دینا میں شامل مگر بلیغہ۔ بے لوث۔ بے تعلق۔ آزاد۔

صابون۔ (صا۔ ون) [ع۔ ا۔ مذ] دیکھیے صابن۔

صابونی۔ (صا۔ بونی) [ع۔ ا۔ مثن] ایک قسم کی مٹھائی۔

صابلی۔ (ع۔ ا۔ مذ) ایک دین سے پھر کر دوسرے دین میں جانا۔

صاحب۔ (ع۔ ا۔ مذ) (۱) بار۔ دوست۔ ساتھی (۲) مالک۔ خدا۔ آقا عالم (۳) کلمہ تعظیم (۴) خاندان منور (۵) آپ (۶) جنہیں شریف (۷) مستحق۔ بزرگ (۸) کلمہ خطاب (۹) کلمہ احترام جو نام کے بعد لکھا جاتا ہے۔

صاحب الغرض مجتوں۔ (ع۔ مثن) غرض مند دیوانہ ہوتا ہے۔

صاحب اختیار۔ (ع۔ صفت) با اختیار۔ خود مختار۔ آزاد۔ مطلق العنان۔

صاحب اخلاق۔ (ع۔ صفت) خوش اخلاق۔ خلیق۔

صاحب اوراک۔ (ع۔ صفت) دانہ۔ عقلمند۔

صاحب استعداد۔ (ع۔ صفت) قابل۔ لائق۔

صاحب اقبال۔ (ع۔ صفت) خوش بخت۔ نیک اختر۔

صاحب لڑنمان۔ (ع۔ صفت) حضرت امام ہدی کا لقب۔

صاحب گریڈ۔ (ع۔ صفت) ڈاکخانے کا انتظام کرنے والا۔ پوسٹ ماسٹر۔

صاحب تخت۔ (ع۔ ف۔ صفت) بادشاہ۔

صاحب نذیر۔ (ع۔ صفت) ذی شعور۔ ہوشیار۔ تجزیہ کار۔ مدبر۔

صاحب تمیز۔ (۱) صفت) تمیز دار۔ ذی شعور۔ (۲) دانہ عقلمند (۳) واقف۔ ماہر۔

(۴) سلیقہ رکھنے والا۔

صاحب بانداد۔ (ع۔ ف۔ صفت) وہ شخص جس کے پاس۔ زمین۔ املاک۔

بانغات وغیرہ ہوں۔

صاحب جمال۔ (ع۔ صفت) حسین خوبصورت۔

صاحب جیش۔ (ع۔ صفت) فوج کا کمانڈر اچھی۔ جرنیل۔

صاحب حال۔ (ع۔ صفت) لائق۔ قابل دید (۲) ہنڈ۔ شائستہ (۳) اہل ل (۴) وہ شخص جس کی طرف کسی فقرے یا جملے کا اشارہ ہو۔

صاحب حیثیت۔ (ع۔ صفت) جاننا داکا مالک۔ دولت مند۔ معزز۔

صاحب خانہ۔ (ع۔ ف۔ صفت) (۱) گھر والا۔ گھر کا مالک (۲) مہمان دار۔ میزبان۔

صاحب دل۔ (ع۔ ف۔ صفت) پارسا۔ منقی۔ پرہیزگار۔ دین دار۔ سخی۔

صاحب دیوان۔ (ع۔ ف۔ صفت) دو شاخہ جس کے کلام کا مجموعہ مرتب یا شائع ہو چکا ہو۔

صاحب ذوق۔ (ع۔ صفت) (۱) عارف کامل (۲) ستونین۔ عاشق مزاج۔

(۳) فنون لطیفہ کا اچھا مذاق رکھنے والا۔

صاحب راز۔ (ع۔ ف۔ صفت) بیدار۔ مجرم بہیم۔

صاحبِ وایت۔ (ع۔ صفت) معین راوی۔

صاحب زادہ۔ (ع۔ ف۔ مذ) (۱) شریف زادہ۔ رئیس زادہ (۲) بیٹا۔ فرزند۔ لڑکا۔

بسی بزرگ دین کی اولاد (۳) تجربہ کار نوجوان۔

صاحب زادہ پن۔ (ع۔ ا۔ مذ) نادانی۔ احمق پن۔ بیوقوفی۔

صاحب زادی۔ (۱) مثن) بیٹی۔ دختر۔

صاحب زبان۔ (ع۔ ف۔ صفت) زبان کا ماہر زبان دان۔

صاحب زر۔ (ع۔ ف۔ صفت) امیر۔ دولت والا۔ مال دار۔

صاحب سلامت۔ (ع۔ ا۔ مثن) عیدک سلیک۔ ملاقات۔ جان پہچان۔

صاحب سلیقہ۔ (ع۔ ف۔ صفت) سلیقہ مند صاحب تمیز۔

صاحب صابی۔ (ع۔ صفت) (۱) حضرت عیسیٰ (۲) وہ شخص جس نے ستاروں کی پرستش رائج کی۔

صاحب صفین۔ (ع۔ صفت) حضرت علیؑ۔

صاحب طرف۔ (ع۔ صفت) با حوصلہ۔ عالی ظرف۔

صاحب عالم۔ (ع۔ صفت) شہزادگان و بی کا لقب۔

صاحب عز و نشان۔ (ع۔ صفت) عزت اور نشان و شوکت والا۔

صاحب عصا۔ (ع۔ صفت) حضرت موسیٰ علیہ السلام۔

صاحب عطا و نعم۔ (ع۔ صفت) فیاض۔ سخی۔

صاحب غیرت۔ (ع۔ صفت) غیرت مند۔

صاحب فراست۔ (ع۔ صفت) دانہ عقلمند۔

صاحب فراش۔ (ع۔ صفت) وہ بیمار جو بستر سے اٹھ نہ سکے۔ چارپائی پر پڑا رہنے والا بیمار آدمی۔

صاحب قرآن - (ع-صف) (۱) وہ شخص جس کے لفظ پھرنے یا پیدا ہونے کے وقت زہرہ و مشتری ایک گھر میں ہوں۔ قرآن السعدین والا۔ (۲) برائیک۔ طالع ادرخ مند (۳) امیر تھویر کا لقب۔

صاحب کلم - (ع-۱-۱) مذ۔ اویب۔ شاعر و مصنف۔

صاحب قیافہ - (ع-صف) عقل مند۔ دانا۔ سمجھ دار۔

صاحب کتاب - (ع-صف) وہ پیغمبر جس پر کوئی آسمانی کتاب اتری ہو۔

صاحب کرامت - (ع-صف) جس میں کرامت دکھانے کی طاقت ہو۔

صاحب کرم - (ع-صف) فیاض۔ سخی۔ دانا۔

صاحب کمال - (ع-صف) ماہر استاد (۲) عارف۔ ولی عالم (۳) حکیم ڈاکٹر۔

صاحب لولاک - (ع-صف) جناب رسالت۔

صاحب مقدور - (ع-ف-صف) مالدار۔ دولت مند۔

صاحب مین - (ع-۱-۱) مذ۔ میرے صاحب! جناب من! حیران۔

صاحب منصب - (ع-۱-۱) مذ۔ عہدیدار۔

صاحب نسبت - (ع-صف) خدا سے لگا رکھنے والا۔ ولی کامل۔

صاحب نصیب - (ع-صف) (۱) خوش نصیب۔ خوش قسمت۔ (ظن) بد نصیب۔ کجنت۔

صاحبجو - (ص-ج-بو) (۱) خطاب] اسے حاضرین جلسہ۔

صاحبجہ - (ص-ج-بی) [ع-۱-۱] صاحب کی تائید۔ محترمہ۔ جمع اصحاب۔

صاحبچی - (ف-۱-۱) مذ۔ (ق) حکومت۔ جہد۔ دور دو (۲) امیری (۳) عالی دماغی۔ نازک مزاجی۔ بے پروائی۔ (۴) سخی۔ فیش پرستی (۵) مغربی انداز اور طور طریقہ۔

صاحبی کرنا - (۱) محاورہ) حکومت کرنا۔ دماغ کرنا۔ کم توہمی کرنا۔ خاطر میں نہ لانا۔

صدا - (ع-۱-۱) مذ [۱] حرف "ص" کا تلفظ (۲) علامت تصدیق و تہا منظور کرنے کی علامت (۳) قرآن شریف کی اٹنیسویں سورت (۴) چشمہ آئینہ۔

صدا کرنا - صدا دکھنا - (۱) محاورہ) تصدیق کرنا۔ منظور کرنا۔ پسند کرنا (۲) دستخط کرنا۔

صدا ہونا - (۱) محاورہ) منظور ہونا۔ تسلیم شدہ۔

صاور - (ص-ا-ور) [ع-صف] نافذ ہونے والا۔ نکلنے والا۔ نافذ۔

صاور شدہ - (ع-صف) جاری کیا ہوا۔

صاور کرنا - (۱) محاورہ) جاری کرنا۔ حکم یا قانون جاری کرنا۔

صاور وارو - (ع-صف) (۱) مسافر آنا جانا (۲) مہمان

صاور ہونا - (۱) محاورہ) (۱) نافذ ہونا۔ جاری ہونا (۲) واقع ہونا پیش آنا (۳) پہنچنا۔ نازل ہونا۔

صادق - (ص-ا-وق) [ع-صف] (۱) سچا۔ راست گو (۲) منصف۔ مزاج۔ (۳) دانا دار (۴) شیک۔ بوزوں (۵) معنی کا کسی دوسری چیز پر درست آنا (چساں ہونا)۔ جمع: صادقین۔

صادق آنا - (۱) محاورہ) (۱) درست ہونا۔ ٹھیک ہونا (۲) چسپال ہونا۔ غائب ہونا۔

صادق الاعتقاد - (ع-صف) سچے اعتقاد والا۔

صادق القول - (ع-صف) بات کا پورا۔ وفادار۔

صادق الوعدہ - (ع-صف) وعدے کا سچا۔ وعدہ پورا کرنے والا بات کا پکا۔

صادقانہ - (ع-صف) سچے طور سے۔ وفاداری سے۔

صارت - (ص-ا-رف) [ع-صف] خرچ کرنے والا۔ وہ شخص جو کسی چیز کو استعمال کرے۔ جمع: صارتین۔

صارم - (ص-ا-رم) [ع-صف] (۱) مذ [۱] لوار کاٹ والی (۲) بہادر آدمی۔

صلع - (ع-۱-۱) مذ (۱) ۲۳۴ تونے کا ایک وزن (۳) [مشت] نشیب۔ پست زمین۔

صاعدا - (ص-ا-ع) [ع-صف] اُپر چڑھنے والا۔

صاعقا - (ص-ا-ع) [ع-۱-۱] [مشت] گرنے والی آرزو میں پرکھنے والی بجلی۔

صاعقا بار - صاعقا زاعقا - (ع-صف) بجلی گرانے والا۔

صاف - (ع-صف) (۱) کھرا۔ بزل۔ خالص۔ (۲) اُجلا بے داغ۔ کولا۔ (۳) بے گناہ۔ پاک (۴) سہل۔ آسان (۵) ہموار۔ پیکنا (۶) سوجھ بوجھ بالکل (۷) ظاہر آشکار (۸) علی الاعلان (۹) منظر ہوا۔ مانجھا ہوا۔ (۱۰) صیقل کیا ہوا۔ (۱۱) سچا۔ سیدھا (۱۲) مفضل۔ واضح (۱۳) ٹھیک درست۔ (۱۴) بے کدورت (۱۵) بے لوث (۱۶) سادہ۔ معصوم۔ (۱۷) کھل کھلا۔ کھلے طور پر۔

صاف اُٹا لانا۔ (۱) محاورہ) اس طرح بھگانا کہ کسی کو کافوں کا ن خبر نہ ہو۔

صاف انکار کرنا۔ (۱) محاورہ) بالکل جواب دینا۔ ٹھکر جانا۔

صاف بات - (۱) [مشت] آزادانہ رائے۔ بے لاک بات۔

صاف باطن - (ع-صف) بے کینہ۔ جس کے باطن میں کھوپ نہ ہو۔

صاف جواب دینا۔ (۱) محاورہ) بالکل انکار کرنا۔ دو ٹوک جواب دینا۔

صاف بچنا۔ (۱) محاورہ) کوئی ضرر نہ پہنچنا۔

صاف چھوٹنا۔ (۱) محاورہ) بری ہونا۔ بے قصورین کر پانی پانا۔

صاف دل - (ع-ف-ص) بے کینہ۔ بے ریا۔ جس کے دل میں کوئی کدورت نہ ہو۔

صاف دیدہ - (ع-ف-ص) بے شرم۔ بے حیا۔ بے عزت۔ ڈھبٹ۔

صاف رہ - میباک رہ - (۱) [مشت] حساب صاف ہو تو کسی کا ڈر نہیں ہوتا۔

صاف رہنا۔ (۱) محاورہ) (۱) اُجلا رہنا۔ پاک رہنا (۲) دیانتداری اور ایمانداری سے رہنا (۳) جھوٹا رہنا۔ کچھ نہ کہنا۔

صاف شفاف - (ع-صف) ایسا صاف جس کے آراہ نظر آسکے۔ بالکل صاف۔

صاف صاف - (ع-۱-۱) مذ بے لگ کھری کھری کھل کھلا۔ اعلانیہ۔

صاف صاف سنانا (کنا) (۱) محاورہ) (۱) گلیاں دینا۔ (۲) کھری کھری کہنا۔

صاف کر دینا۔ صاف کرنا۔ (۱) محاورہ) (۱) دھوڑنا۔ میل کانا۔ کھڑا کرنا۔ نکالنا۔ مانجھا (۲) نقل کرنا۔ مسودہ کو ٹھیک کر کے لکھنا (۳) جھکنا۔ کھٹکنا۔ میدان بنانا (۴) جھٹ کرنا۔ اُڑانا (۵) بالکل غارت کرنا۔ اُحارٹنا۔ مارنا (۶) مشتق کرنا (۷) مٹھ کا مڑھ ٹھیک کرنا (۸) مذ بوجھ لوز کو بنانا۔ (۹) قتل کر دینا۔ (۱۰) کدورت رفع کرنا (۱۱) مہندم کر دینا۔ گزانا۔

(۱۲) بیاق کرنا (۱۳) ختم کر دینا (۱۴) چوری کرنا -
صاف کھردینا (کہنا) (۱) محاورہ (۲) بیچ بچ کرنا - کھری کھری سنانا (۲)
لے لگا بات کرنا -
صاف گزرنے والا (محاورہ) ناگزرنے والا بالکل کھلنے کو نہ ملنا -
صاف گو - (ع - ت - صف) سجا - کھری کھری کھنے والا -
صاف معاملہ - (ع - ۱ - مذ) ایسا معاملہ جس میں کوئی بیچ نہ ہو -
صاف مُند پر کہنا - (۱) محاورہ (کسی کے خلاف اس کے سامنے کہنا
کھنے طور پر کہنا -
صاف نکل جانا - (۱) محاورہ کسی عدم مدد آزار یا خطر کا جگہ سے بچ کر چلا جانا -
صاف ہونا - (۱) اخلاص ہونا (۲) کھلتا جاری ہونا (۳) گریزنا (۴) بہت
سے آدمیوں کا مارا جانا (۵) جنگل کا ٹھکانا (۶) بال موٹا جانا (۷)
بیاق ہونا (۸) آسمان کھلنا (۹) درست کر کے کھا جانا -
صاف نہ - [۱ - ۱ - مذ] (۱) سر پر باندھنے کا دوپٹہ (۲) شکاری جانور کا گھوکنا
صاف دینا - (۱) محاورہ شکاری جانور کو گھوکنا رہنا - کبوتر کو بلند پروازی
کے لیے گھوکنا رکھنا -

صافی - (صافی) (ع - ۱ - مٹ) (۱) رومال یا کپڑے کا ٹکڑا جس سے صفائی
کی جائے جو گھلے پر سے برتن اتارنے کا کپڑا (۲) چھانسنے کا کپڑا -
صافی نامہ - (ع - ت - ۱ - مذ) راضی نامہ (۲) تصدیق کا خط بنا دغ خطی -
صالح (صالح) (ع - صفت) (۱) نیک پارسا - پرہیزگار (۲) مستحق (۳)
دیانتدار - نیک چلن (۳) ایک پیغمبر تو م خود میں مبعوث ہوئے تھے -
صالحات - (صالحات) (ع - ۱ - مٹ) (۱) صالح کی جمع نیکائیاں
(۲) اچھے کام -
صالحہ - (صالحہ) (ع - ۱ - مٹ) [نیک بخت عورت - پاک امن بی بی -
صالحین - (صالحین) (ع - ۱ - مذ] صالح کی جمع - نیک اور پرہیزگار لوگ -
صامت - (ع - صفت) چپ خاموشی (۲) گونگا (۳) بے جان -
صانع - (صانع) (ع - صفت) (۱) کاریگر - بنانے والا (۲) پیدا کرنے
والا - خالق -
صانع حقیقی - صانع قدرت - صانع مطلق - (ع - ۱ - مذ) اللہ پاک
دینا بنانے والا -
صائب - (صائب) (ع - صفت) (۱) رسا - پھینچنے والا - (۲) درست
ٹھیک -
صائب الرولے - (ع - صفت) جس کی رولے درست ہو عقل مند -
صائم - (صائم) (ع - ۱ - مذ - صفت) روزہ - روزہ رکھنے والا -
صائم الدہر - (ع - صفت) ہمیشہ روزہ رکھنے والا -

صبا خرام - (ع - صفت) نیرفتار کنایت تیز گویا -
صباح (صباح - باج) (ع - ۱ - مٹ) صبح تیز کا - سحر -
صباحت - (صباح - باج) (ع - ۱ - مٹ) گویا پین خوبڑی - جمال -
صباح - (ع - ۱ - مٹ) تیز کا - فجر - سویرا - سحر -
صباح ازل - مخلوق کی بدلائش اول کا وقت - آغا -
صبح السنت - (ع - ۱ - مٹ) وہ صبح جب اللہ نے دلوں سے پوچھا
تھا - اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ - یعنی کیا میں تمھارا رب ہوں - دلوں نے
کہا تھا بلی - ہاں تو ہمارا رب ہے -
صبح بنارس - (۱) مٹ) بنارس میں صبح کا نظارہ بہت دلکش ہوتا ہے
عورتیں نہانے کے لیے دیوانے لگا کر بیچاتی ہیں جس سے بڑی تھل تھل
ہوتی ہے - اسی لیے بنارس کی صبح مشہور ہے -
صبح بہار - (ع - ت - ۱ - مٹ) موسم بہار کی صبح جسے بہت اچھا سمجھا جاتا
ہے -

صبح پیری - (ع - ت - ۱ - مٹ) بڑھاپا - بڑھاپے کی ابتدا -
صبح خیز - (ع - ت - ۱ - مذ) صبح سویرے اٹھنے والا - عابد - نمازی -
صبح خیزا - (ع - ت - ۱ - صفت) سونے ہوئے مسافروں کا
مال چرانے والا - چور -
صبح دم - (ع - ت - ۱ - صفت) صبح - بہت تیز کے مُندا اندھیرے -
صبح شام بتانا - صبح شام کرنا - (۱) محاورہ جلد بہانہ کر کے ٹالنا -
صبح صادق - (ع - ت - ۱ - مذ) نور کا تیز کا - پد پھینچنے -
صبح صبح - (ع - متعلق فعل) بہت سویرے -
صبح کا بھولا شام کو آسنے تو اسے بھولا نہیں کہتے - (۱) مثل
اگر آدمی خرابی اٹھا کر جلد ستر جائے یا ایک وقت کے کام کو دوسرے
وقت میں کرے تو وہ قابل مواخذہ نہیں ہے -
صبح کا تارا - (۱) مذ) نہایت روشن ستارہ جو اکثر صبح کے وقت اور کبھی
شام کو بھی دکھائی دیتا ہے - زہرہ -
صبح کا زب - (ع - ۱ - مٹ) صبح کی روشنی جس کے بعد پھر اندھیرا
ہو جاتا ہے -
صبح کرنا - (۱) محاورہ رات کاٹنا -
صبح کس کا منہ دیکھا تھا - (۱) محاورہ جب کوئی کام بڑھ جائے یا خلاف
معمولی ہو تو اس وقت کہتے ہیں -
صبح کی بوجھی اللہ میاں کی آسن - (۱) مثل) صبح کو کسی چیز کا بلا ٹکڑا
ریک جانا مبارک ہونا ہے -
صبح کی بوجھنا تو شام کی کہنا - (۱) محاورہ) جو اس باختہ ہونا - گھبرا جانا -
صبح کاہ - (ع - ت - ۱ - مٹ) صبح کے وقت - علی الصباح -
صبح کاہی - (ت - ۱ - مٹ) صبح سے متعلق - صبح والا -
صبح و مسا - (ع - ت - ۱ - مٹ) صبح شام -
صبح ہو جانا - (۱) محاورہ) دن نکل آنا - خاتمہ ہو جانا -
صبحہ - (ع - ۱ - مذ) (۱) شکیبائی خاموشی (۲) برداشت - بُردباری مثل

ص - ب

صبا - (ص - با) (ع - ۱ - مٹ) (۱) وہ ہوا جو مشرق سے چلے - وہ پُردا ہوا
جو موسم بہار میں چلتی ہے - مشرقی ہوا - صبح کی ہوا -

صَبِيح - (ص۔ ب۔ ص) [ع۔ صفت] گورا۔ خوبصورت۔
صَبِيئَة - (ص۔ ب۔ بی) [ع۔ ا۔ مٹ] لڑکی۔ بیٹی۔

ص۔ ح

صَحَابِيَت - (ص۔ ح۔ ابنت) [ع۔ ا۔ مٹ] رفاقت۔ دوستی۔
صَحَابِيَه - (ص۔ ح۔ ابنت) [ع۔ ا۔ مذ] (۱) صاحب صحابی کی جمع۔ دوست (۲) رسول مقبول صلعم کے ہم مجلس۔
صَحَابِي - (ص۔ ح۔ ابی) [ع۔ ا۔ مذ] رسول مقبول کے ساتھی یا وہ مسلمان جنہوں نے آنحضرت صلعم کو دیکھا ہو۔
صَحَابِيَه - (ع۔ ا۔ مٹ) صحابی کی تانیث۔
صَحَابِح - (ص۔ ح۔ حارج) [ع۔ ا۔ مٹ] صحیح کی جمع۔ دوست۔
صَحَابِحِ رَسُوْل - (ع۔ ا۔ مٹ) حدیث کی چھ مستند کتابیں (۱) بخاری (۲) مسلم (۳) ترمذی (۴) ابوداؤد (۵) ابن ماجہ (۶) نسائی۔
صَحَابِيَه - (ع۔ ا۔ مذ) جلد ساز کتاب کی جلد بنانے والا۔
صَحَابِيَت - (ص۔ ح۔ فٹ) [ع۔ ا۔ مٹ] اخباری کاروبار۔ اخبار نویس۔
اِنک (Journalism)

صَحَابِي - (ص۔ ح۔ ابی) [ع۔ ا۔ مذ] اخبار نویس (انک (Journalist)
صَحَابِيَت - (ص۔ ح۔ ابنت) [ع۔ ا۔ مذ] صحیحہ کی جمع۔ رسالے کتابیں۔
صَحَابِيَت - (ص۔ ح۔ ابنت) [ع۔ ا۔ مٹ] (۱) یادی۔ دوستی۔ مددکاری (۲) ہمراہی
 ساتھ۔ (۳) محفل۔ مجلس۔ مل بیٹھنا (۴) ہم بستری عورت کے ساتھ سونا۔
صَحَابِيَت اٹھانا۔ برتننا۔ (۱) محاورہ (۲) پاس رہنا (۳) پاس رہ کر تعلیم تربیت پانا۔
صَحَابِيَت برادر (برآری) ہونا۔ صحبت کا موافق ہونا۔ دوستی۔
صَحَابِيَت برخاست ہونا۔ (ص۔ ح۔ مرکب) مجلس برخاست ہونا۔
صَحَابِيَت چمکا دینا۔ (۱) محاورہ جلسہ کی رونق بڑھادینا۔
صَحَابِيَت داری۔ جماعت ہم بستری جماع (۲) میل جول مصاحبت۔
صَحَابِيَت راس آنا۔ (۱) محاورہ کسی کے پاس بیٹھ کر بے کام چھوڑ دینا۔
صَحَابِيَت رکھنا۔ (۱) محاورہ ہم نشینی اور ہم جلسی اختیار کرنا۔
صَحَابِيَت صالح ترا صالح لکھنا۔ صحبت طالع ترا طالع لکھنا۔ (۱) مثل
 اچھی صحبت بچھے نیک اور بُری صحبت بچھے بُرا بنائے گی۔
صَحَابِيَت کا اثر ہونا۔ (۱) محاورہ پاس اٹھنے بیٹھنے کی تاثیر ہونا۔ ہم صحبتوں کا ایک دوسرے میں مخلوط ہونا۔
صَحَابِيَت کرنا۔ (۱) محاورہ جماع کرنا۔ ہم بستری کرنا۔
صَحَابِيَت گرم ہونا۔ (۱) محاورہ بے تکلفی کا جلسہ ہونا۔ پاس بیٹھ کر دل خوش ہونا۔
صَحَابِيَت نہ رہنا۔ (۱) محاورہ پاس اٹھنے بیٹھنے کا موقع نہ ملنا۔ شریک جلسہ نہ ہونا۔
صَحَابِيَت یافتہ۔ (ع۔ ف۔ صفت) تعلیم یافتہ۔ شائستہ۔ لائقوں کی صحبت کا فیصلہ پایا ہوا آدمی۔

(۳) توفیق۔ تامل (۴) خدا کی مار۔ کسی کا دل دکھانے کی آنت (۵) توکل۔ قناعت۔

صَبْر آزما۔ (ع۔ ف۔ صفت) تکلیف دہ صبر کو آزمانے والا۔
صَبْر آنا۔ (۱) محاورہ تسلی ہونا۔ اطمینان ہونا۔ چین آنا۔
صَبْر ایوب (ایوبی) [ع۔ ا۔ مذ] حضرت ایوب کا صبر جو بہت مشہور ہے انتہائی صبر۔
صَبْر بڑا۔ (۱) محاورہ کسی کو ستانے کی غیب سے سزا ملنا۔
صَبْر تلخ است و لیکن پریشانی دارو۔ (ف۔ مثل) صبر تکلیف دہ ضرور ہے مگر اس کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔

صَبْر جمیل۔ (ع۔ ا۔ مذ) بہترین صبر۔ وہ صبر جس پر ثواب ملے۔
صَبْر دینا۔ (۱) محاورہ اللہ تعالیٰ کا کسی کو نسیکین دینا۔
صَبْر خصمت ہونا۔ (۱) محاورہ صبر نہ رہنا۔ بے صبر ہونا۔
صَبْر سببیتا۔ (۱) محاورہ (۱) ناحق نعمت لگانا۔ بہتان کا ٹٹا ہونے سے ڈر لینا۔ بھوٹ ہونا۔ (۲) دعائے بدینا۔ کوسنا سنا۔
صَبْر کا بار نہ رہنا۔ (۱) محاورہ صبر نہ ہو سکتا۔ بے صبری۔
صَبْر کرنا۔ (۱) محاورہ (۱) نا اُمید ہونا (۲) گھم کرنا۔ خاموش رہنا (۳) شہرنا۔ تامل کرنا (۴) توکل کرنا۔ قناعت کرنا۔
صَبْر کی داد خدا کے ہاتھ سے۔ (۱) مثل صبر کرنے والوں کا انصاف خدا ہی کرتا ہے۔

صَبْر کی سہل چھانی پر رکھنا۔ (۱) محاورہ صبر کرنا۔ صبر کی توفیق دینا۔
صَبْر لینا۔ (۱) محاورہ کسی کے صبر کے عذاب میں گرفتار ہونا (۲) کسی پر بہتان یا الزام لگا کر آہ لینا۔
صَبْر و شکر کرنا۔ (۱) محاورہ کسی مصیبت یا بلا سے ناگمانی پر چب رہنا۔ تکلیف میں خدا کا شکر بجالانا۔
صَبْر کر کے بیٹھ رہنا۔ (۱) محاورہ باپوس ہو کر بیٹھ رہنا۔
صَبْر و شکیب۔ محفل برداشت۔ اطمینان۔
صَبْر ہونا۔ (۱) محاورہ برداشت ہونا۔ قناعت ہونا (۲) تسلی ہونا۔ توکل ہونا۔ تامل ہونا۔

صَبْر - [ع۔ ا۔ مذ] ایوا۔
صَبْر - (صبر) [ع۔ ا۔ مذ] انک (۲) ملت۔ دین۔
صَبْر اللہ - (صبر) [ع۔ ن۔ ل۔ لہ] قدرتی رنگ۔ دین کا رنگ۔ (۲) خدائی قانون۔
صَبْر - (صبر) [ع۔ ا۔ مذ] (۱) مٹ۔ (۲) مٹ۔ (۳) مٹ۔ (۴) مٹ۔ (۵) مٹ۔ (۶) مٹ۔ (۷) مٹ۔ (۸) مٹ۔ (۹) مٹ۔ (۱۰) مٹ۔ (۱۱) مٹ۔ (۱۲) مٹ۔ (۱۳) مٹ۔ (۱۴) مٹ۔ (۱۵) مٹ۔ (۱۶) مٹ۔ (۱۷) مٹ۔ (۱۸) مٹ۔ (۱۹) مٹ۔ (۲۰) مٹ۔ (۲۱) مٹ۔ (۲۲) مٹ۔ (۲۳) مٹ۔ (۲۴) مٹ۔ (۲۵) مٹ۔ (۲۶) مٹ۔ (۲۷) مٹ۔ (۲۸) مٹ۔ (۲۹) مٹ۔ (۳۰) مٹ۔ (۳۱) مٹ۔ (۳۲) مٹ۔ (۳۳) مٹ۔ (۳۴) مٹ۔ (۳۵) مٹ۔ (۳۶) مٹ۔ (۳۷) مٹ۔ (۳۸) مٹ۔ (۳۹) مٹ۔ (۴۰) مٹ۔ (۴۱) مٹ۔ (۴۲) مٹ۔ (۴۳) مٹ۔ (۴۴) مٹ۔ (۴۵) مٹ۔ (۴۶) مٹ۔ (۴۷) مٹ۔ (۴۸) مٹ۔ (۴۹) مٹ۔ (۵۰) مٹ۔ (۵۱) مٹ۔ (۵۲) مٹ۔ (۵۳) مٹ۔ (۵۴) مٹ۔ (۵۵) مٹ۔ (۵۶) مٹ۔ (۵۷) مٹ۔ (۵۸) مٹ۔ (۵۹) مٹ۔ (۶۰) مٹ۔ (۶۱) مٹ۔ (۶۲) مٹ۔ (۶۳) مٹ۔ (۶۴) مٹ۔ (۶۵) مٹ۔ (۶۶) مٹ۔ (۶۷) مٹ۔ (۶۸) مٹ۔ (۶۹) مٹ۔ (۷۰) مٹ۔ (۷۱) مٹ۔ (۷۲) مٹ۔ (۷۳) مٹ۔ (۷۴) مٹ۔ (۷۵) مٹ۔ (۷۶) مٹ۔ (۷۷) مٹ۔ (۷۸) مٹ۔ (۷۹) مٹ۔ (۸۰) مٹ۔ (۸۱) مٹ۔ (۸۲) مٹ۔ (۸۳) مٹ۔ (۸۴) مٹ۔ (۸۵) مٹ۔ (۸۶) مٹ۔ (۸۷) مٹ۔ (۸۸) مٹ۔ (۸۹) مٹ۔ (۹۰) مٹ۔ (۹۱) مٹ۔ (۹۲) مٹ۔ (۹۳) مٹ۔ (۹۴) مٹ۔ (۹۵) مٹ۔ (۹۶) مٹ۔ (۹۷) مٹ۔ (۹۸) مٹ۔ (۹۹) مٹ۔ (۱۰۰) مٹ۔

صَبْر اورا۔ (ص۔ ب۔ ورا) [ع۔ ا۔ مذ] مصنوعی عضو ناسل۔
صَبْر وری۔ (ص۔ ب۔ وری) [ع۔ ا۔ مٹ] صبر۔
صَبْر - (ص۔ ب۔ بی) [ع۔ ا۔ مذ] دودھ پیتا بچہ۔ جمع صبیان

(۵) مارنا (۶) ثابت کرنا (۷) کھرا کرنا (۸) گواہی کے لیے پکارنا۔
 صحیح گئے سلامت آئے۔ (اضل) جیسے یہاں گئے تھے۔ ایسے ہی باہر سے
 نہ کچھ کمایا نہ کچھ خرچ کیا۔
 صحیح ہونا۔ (۱) محاورہ (۱) غلطی ٹکنا۔ ٹھیک ہونا (۲) تصدیق ہونا
 دستخط ہونا۔ ثبوت ہونا۔ (۳) پکا ہونا (۴) یہی میں لکھا جانا۔
 صحیح ہے۔ (۱) متعلق فعل) بجائے۔ درست ہے۔ حق ہے۔
 صحیحین۔ (ع۔ صفت) صحیح کا تشبیہ (مث) احادیث کے دو مشہور مجموعے
 صحیح بخاری اور صحیح مسلم۔
 صحیفہ۔ (ص۔ حی۔ ذ) [ع۔ اذ] کتاب۔ رسالہ۔ ورق۔ لکھا ہوا صفحہ۔
 چھوٹی کتابیں جو بعض بیعتوں پر نازل ہوئیں۔
 صحیفہ آسمانی۔ (ع۔ ف۔ ا۔ مذ) خدا کی طرف سے نازل شدہ کتاب۔
 صحیفہ ابراہیمی۔ وہ کتاب جو حضرت ابراہیم پر نازل ہوئی۔
 صحیفہ نیکار (نویس) [ع۔ ف۔ صفت] صحافی۔ اخبار نویس۔
 صحیفہ نگاری (نویسی) [ع۔ ف۔ ا۔ صفت] صحافت۔ اخبار نویسی۔

ص - د

صد۔ [ف۔ صفت] اسم عدد۔ سو۔ سیکڑہ۔ جمع صدہا۔
 صد آفرین۔ صدرِ رحمت۔ (ف۔ کلید تحسین) آفرین۔ شاباش۔ مرحبا۔
 بزرگ لشکر (طنزاً) لعنتِ اامت کے نوحے پر بولنے ہیں۔
 صد برگ۔ (ف۔ ا۔ مذ) وہ پھول جس کی بہت سی پتھریاں ہوں۔ گیندا۔
 صد پایا۔ (ف۔ مذ) بہت سے پاؤں والا۔ کنگھجورا۔
 صد پارہ (چاک) [ف۔ صفت] بہت جگہ سے پٹھا ہوا۔ ٹکڑے ٹکڑے۔
 صد شکر۔ (۱) محاورہ) خدا کا شکر ہے یہی عزتِ گوری۔
 صد کان گو سر۔ (ف۔ ا۔ مذ) بہت حسین۔ معشوق۔
 صد مرجبا۔ (کلید تحسین) شاباش۔ آفرین۔
 صدہا۔ سیکڑوں۔ جہت سے۔
 صدرا۔ (ص۔ د) [ع۔ ا۔ صفت] (۱) گونج۔ گیند کی آواز (۲) مطلق آواز۔
 آہٹ (۳) درویش یا فقیر کے مانگنے کی صدرا۔
 صدرا بھوجا۔ (ف۔ ع۔ ا۔ صفت) (۱) مٹ) جنگل کی آواز بے کار اور بے سود بات
 جس کی شنوائی نہ ہو۔
 صدابندی۔ (۱) فہمیت (۲) (Recording) آواز کو محفوظ یا ریکارڈ کرنے کا عمل
 صدرا دینا۔ (۱) فقیر کا آواز لگانا۔ (۲) بلانے کے لیے آواز دینا۔
 صدرا کار۔ (ع۔ ف۔ صفت) آواز کا فنکار۔ معنی۔ گانے والا گویا۔
 صدرا کرنا صدرا لگانا۔ (۱) محاورہ) فقیر سے سوال کرنا۔ آواز لگانا۔
 صدرا رت۔ (ص۔ د۔ ارت) [ع۔ ا۔ صفت] صد نشینی۔ پریندہ نشی۔ چیرہ بینی۔
 صدرا رتِ عظمیٰ۔ (ع۔ ا۔ صفت) وزارتِ عظمیٰ۔
 صدرا رتِ ظہری حکومت۔ (ف۔ ع۔ ا۔ صفت) [ع۔ ا۔ صفت] وہ نظامِ حکومت جس میں وزیر اعظم
 کی بجائے صدر انتظامی سربراہ ہوتا ہے۔

صحبتیں اٹھانا۔ صحبتیں برزنا۔ صحبتیں دکھینا۔ (۱) محاورہ) اچھے لوگوں
 کی صحبتوں سے نفین اٹھانا۔
 صحبتی۔ (ص۔ ب۔ ف۔ تی) [ف۔ ا۔ مذ] یاد۔ ہنشین۔ دوست۔
 صحبت۔ (ص۔ ب۔ ح۔ ح۔ ع۔ ا۔ صفت) [ع۔ ا۔ صفت] (۱) آرام۔ تندرستی۔ تھرا (۲) صبح۔ املا کی درست
 صحبت افزا۔ [ع۔ ف۔ صفت] تندرستی کے لیے مفید صحبت کو بہتر بنانے والا۔
 صحبت الفاظی۔ (ع۔ ف۔ ا۔ صفت) صحیح لفظ ہونا۔ صحیح تلفظ کرنا۔
 صحبت بخش۔ (ع۔ ف۔ صفت) فائدہ بخشنے والا۔ شفا دینے والا۔ مفید۔
 صحبت خانہ۔ (ع۔ ف۔ مذ) پاخانہ نشی۔ سببِ الحلا
 صحبت گاہ۔ (ع۔ ف۔ ا۔ صفت) وہ صحبت افزا مقام جہاں مریضوں کو
 رکھا جاتا ہے۔ سینی ٹورم۔
 صحبت نامہ۔ (ع۔ ف۔ ا۔ مذ) [ع۔ ا۔ صفت] (۱) فرستِ اغلاط۔ اغلاط نامہ (۲) تندرستی
 کا سرٹیفکیٹ۔
 صحت یابی۔ (ع۔ ف۔ ا۔ صفت) بیماری کے بعد اچھا ہونا۔ تندرست ہونا۔
 صحرا۔ (ص۔ ر۔ ا) [ع۔ ا۔ مذ] میدان۔ جہاں درخت وغیرہ کچھ نہ ہو۔ بیابان۔
 دیرانہ۔ بختیان۔
 صحرائی خاک چھاننا۔ (۱) محاورہ) جنگلوں میں آوارہ پھرنا۔
 صحرا گرد۔ صحرا نورد۔ (ع۔ ف۔ صفت) جنگلوں میں پھرنے والا۔
 صحرائین۔ (ف۔ ا۔ مذ) جو جنگلوں میں رہے تمارک الدنیا۔ راہب۔
 صحرائے اعظم۔ (ع۔ ا۔ مذ) افریقہ کا ایک طویل و درلین ریشتان۔
 صحرائے نئی روتی۔ (ع۔ ا۔ مذ) سنسان اور دریاں جنگل۔
 صحرائی۔ (ص۔ ر۔ ا۔ ای) [ع۔ صفت] جنگلی۔ بیابانی۔
 صحف۔ (ص۔ ب۔ ح۔ ع۔ ا۔ صفت) صحیفہ کی جمع۔
 صحن۔ (ع۔ ا۔ مذ) (۱) آئین۔ آئینائی (۲) ایک قسم کا عمدہ کپڑا۔
 صحن چین۔ (ع۔ ف۔ ا۔ مذ) باغ کا تختہ۔ تختہ کشن۔
 صحنی۔ (صحن چہی) [ف۔ ا۔ صفت] وہ چھوٹا صحن جو دالان کے پہلو
 میں بنا دیتے ہیں۔
 صحنک۔ (ص۔ ح۔ ن۔ م۔ ت) [ف۔ ا۔ صفت] (۱) رکابی۔ طباق (۲) چھوٹا
 صحن۔ (۳) حضرت فاطمہ کی نیاز کا کھانا یا ناختہ۔
 صحنک سے اٹھ جانا۔ (۱) محاورہ) ناپاکی کے باعث حضرت فاطمہ
 کی نیاز یا ناختہ کی مجلس میں شریک ہونے کے قابل نہ رہنا۔
 صحنو۔ (ع۔ ا۔ مذ) ہوشیاری۔ بیداری۔
 صحنی۔ (ص۔ ح۔ ع۔ ا۔ صفت) [ع۔ ا۔ صفت] (۱) درست۔ ٹھیک۔ تندرست۔
 پورا۔ کامل۔ سارا (۲) تصدیق۔ دستخط۔
 صحیح العقل۔ (ع۔ صفت) عقل کا پورا۔ وہ شخص جس کی عقل سالم ہو۔
 صحیح المزاج۔ (ع۔ صفت) تندرست۔ بھلا چنگا۔
 صحیح النسب۔ (ع۔ صفت) نسل سے ٹھیک۔ خاندانی شریف۔
 صحیح سالم (سلامت) [ع۔ صفت] پورا اور کامل۔ صحیح سلامت۔
 بھلا چنگا۔ تندرست۔
 صحیح کرنا۔ (۱) محاورہ) (۱) اصلاح دینا۔ درست کرنا (۲) ٹھیک کرنا۔
 (۳) تصدیق کرنا۔ دستخط کرنا (۴) درج حساب کرنا۔ لکھ لینا۔

صداع - (ع - ۱ - مذ) دروسر۔

صدافت: (ن - ۱۰ - قمت) [ع - ۱ - مٹ] (۱) سچائی، خلوص۔ وفاداری (۲) تصدیق۔ ثبوت۔ گواہی۔

صدائے بازگشت: (ع - ف - ۱ - مٹ) وہ آواز جو پہاڑ یا گیند سے ٹکرا کر واپس آتی ہے۔ (۲) نتیجہ۔ اثر۔

صدائے برنشاطت - (ف - مٹ) کوئی آواز نہیں۔ کوئی جواب نہیں (جواب نہ ملنے پر کہتے ہیں)

صدائے کوہ - (ف - ۱ - مٹ) پہاڑ کی گونج۔

صدر - (ع - ۱ - مذ) (۱) میرپلیس۔ چیمبریں۔ پریزیڈنٹ (۲) ملک کا سربراہ۔

(۳) سینہ بھاتی۔ (۴) صحن۔ اٹھائی (۵) سامنا۔ آگاہ۔ سامنے کا رخ

(۶) اعلیٰ جگہ۔ کسی اعلیٰ مرتبہ شخص کے رہنے کی جگہ۔ ہیڈ کوارٹر (۷) امیر۔ سردار (۸) کیمپ۔ چھاؤنی (۹) اعلیٰ۔ اونچا۔ اول۔ سلا۔ بزرگ۔

(۱۰) خاص۔ مندرگاہ۔ تالیں۔ (۱۱) پہلے استعمال شدہ۔ بالامرکبات میں

جیسے مندرجہ صدر۔

صدرا عظم - (ع - ۱ - مذ) دیوان اعلیٰ۔ وزیر عظم۔

صدرا اعلیٰ - (ک - ۱ - مذ) اول درجے کا راج۔ منصف درجہ اول۔

صدرا الصدور - (ع - ۱ - مذ) (۱) اعلیٰ درجے کا منصف (۲) شاہی گھر کا محافظ

صدرا امین - (ع - ۱ - مذ) اعلیٰ درجے کا امین۔ وہ حاکم جو جگہ کے ماتحت ہو۔

صدرا بازار - (ع - ف - ۱ - مذ) چھاؤنی کا بڑا بازار۔ آڈو بازار۔

صدور بوز - (ع - ۱ - مذ) عدالت عالیہ۔ مال کا محکمہ اعلیٰ۔

صدور جمع - (ع - ف - ۱ - مذ) نکان کی وہ اسل رقم جو اخراجات تحصیل

کے علاوہ حکومت کو دینی پڑے۔

صدور چہورتیہ - (ع - ۱ - مذ) کسی جمہوری ریاست کا سربراہ۔

صدور جهان - (ع - ۱ - مذ) بعض کے نزدیک ایک فرضی ولی۔

صدور دفتر - (ع - ۱ - مذ) سب سے بڑا دفتر۔ ہیڈ آفس۔

صدور دیوان - (ع - ف - ۱ - مذ) دیوان اعلیٰ خزانہ شاہی کا منعم اعلیٰ۔

صدور راج - (ع - ۱ - مذ) صدر مملکت کی حکومت، اسمبلی توڑنے کے بعد

کسی صوبے کا براہ راست صدر مملکت کی نگرانی میں آنا۔

صدر عدالت - (ع - ۱ - مٹ) بڑی عدالت۔

صدر مال گزار - (ع - ف - ۱ - مذ) کسی کی واسطے کے بغیر کار کو خود معاملہ دار

کرنے والا۔

صدر مجلس - (ع - ۱ - مذ) پریزیڈنٹ۔ میرپلیس۔

صدر محاسب - (ع - ۱ - مذ) محکمہ حساب کا سب سے بڑا دفتر

کا ڈائریکٹ جنرل۔

صدر مقام - (ع - ۱ - مذ) یا تخت۔ دارالحکومت۔

صدر مملکت - (ع - ۱ - مذ) کسی ریاست یا حکومت کا سربراہ۔ پریزیڈنٹ۔

صدر منضم - (ع - ۱ - مذ) اعلیٰ درجے کا منضم۔ پیمائش کے دفتر کا

اعلیٰ عہدے دار۔

صدر نشین - (ع - صف) میرپلیس۔ کسی نشین۔ چیمبریں۔

صدر سربراہ - (ع - مٹ) صدر ریاست۔ بزرگ حاکم یا کوئی بڑا

آدمی جہاں بیٹھ جائے وہی جگہ معتز بھی جاتی ہے۔

صدرہ - (ع - ۱ - مذ) انسان کے جسم کا بالائی حصہ (۲) منطق کی مشہور کتاب۔

صدرہ پڑھ کر بھی احمق رہے۔ (۱ - مثل) منطق پڑھ کر بھی عقل نہ آئی۔

صدری - (صدری) [آر - ۱ - مٹ] (۱) ایک قسم کی مرزنی یا اسکٹ (۲)

سینہ بند (۳) صف (سینہ بسیدہ پہننا سنہ یا کلام وغیرہ۔

صدف - (ص - ف - ۱ - مٹ) [ع - ۱ - مٹ] سیب۔ ایک قسم کا سمندری مہوگا

جس سے موتی نکلتا ہے۔ جمع: اصدف

صدق - (ع - ۱ - مذ) سچ۔ راستی۔ خلوص۔

صدق دل سے - (ع - ۱ - مذ) سچ۔ راستی۔ خلوص۔

صاف دل سے۔

صدق مقال - (ف - ۱ - صف) سچ بولنا۔

صدقات - (ص - مٹ) [ع - ۱ - مذ] صدقہ کی جمع۔

صدقہ - (صدر - مذ) [ع - ۱ - مذ] (۱) خیرات۔ وہ چیز جو خدا کے نام پر دی جائے

(۲) وہ کھانا وغیرہ جو سر سے اتار کر دیا جائے۔ آثار (۳) قربان

نذا - (۲) طفیل۔ بدولت۔ جمع صدقات

صدقہ آنا زنا - صدقہ دینا۔ (۱ - محاورہ) آنا رادینا یا آنا زنا خیرات کرنا

قربان دینا۔

صدقہ جاریہ - (ع - ۱ - مذ) ایسی خیرات جس سے لوگوں کو ہمیشہ فائدہ

پہنچتا ہے۔ (مسجد کنواں وغیرہ)

صدقہ دینا - (۱ - محاورہ) خیرات کرنا۔ قربان کر دینا۔ سر پر وار کر دینا۔

صدقہ دینا رد ہلنا - (۱ - مثل) صدقہ دینے سے بلاؤں دور ہوتی ہے۔

صدقہ (سلتا) سبلا - (ع - ۱ - مذ) خیر خیرات۔ وہ صدقہ جو مسلمان کے عرض

دیا جائے۔ (سلتا غالباً صلحا بجا رہے)

صدقہ فطر - (ع - ۱ - مذ) رمضان کا صدقہ جو نبی آدمی دوسیر گہوں ہے جو نماز

رعید سے پہلے غریبوں کو دیتے ہیں۔

صدقہ فقی - (صدر - مذ) [آر - ۱ - مذ] (۱) صدقہ کی جمع (۲) واری۔ قربان۔

صدقہ جانا۔ (۱ - محاورہ) قربان ہونا۔ واری جانا۔ تصدق ہونا۔

صدقہ چاہیے۔ (۱ - بول چال) جہاں کسی کی بیوقوفی کا اظہار کرتا ہو وہاں کہتے

ہیں۔ قربان چاہیے۔

صدقہ کرنا۔ (۱ - محاورہ) قربان کرنا۔ وارنا نثار کرنا (۲) کلمہ تنغہ و سخارت۔

صدقہ کرے کرنا۔ (۱ - محاورہ) (۱) قربان کرے کرنا (۲) آگ رکاوٹوں۔

صدقہ کی سبیل۔ (۱ - مٹ) پیکر کھانے کے لیے چھوڑی ہوئی سبیل۔

صدقہ ہونا۔ (۱ - محاورہ) دیکھیے صدقہ جانا۔

صدومر - (صدر - مذ) [ع - ۱ - مذ] (۱) دھکا دنگ۔ آسیب (۲) تکلیف۔ چوٹ۔

ضرب (۳) حادثہ۔ واقعہ (۴) نقصان۔ ضرر (۵) بلا۔ مصیبت۔

صدومر اٹھانا۔ (۱ - محاورہ) (۱) نقصان اٹھانا (۲) رنج اٹھانا۔

صدومر پہنچنا۔ (۱ - محاورہ) دکھ ملنا۔ ضرب لگنا۔ نقصان بھیننا۔

صدومر بھیننا۔ (۱ - محاورہ) دکھ سہنا۔ صدومر برداشت کرنا۔

صدومر جاننا۔ (ع - ۱ - مذ) سخت ضرب۔ دو چوٹ جس سے نقصان جان ہو۔

صدومر گزنا۔ (۱ - محاورہ) مصیبت بیتنا۔ حادثہ پیش آنا۔

صدور (ص - د) (ف - ا - م - ث) (۱) صادر ہونا (۲) اجراء (۳) صدر کی جمع
 صدور و جمع - حکم کا اجراء حکم کا نفاذ -
 صدی (ص - ا - د - ی) (ف - ا - م - ث) (۱) سو برس سے منسوب - سو برس
 کی تعداد - (۲) سیکڑہ -
 صدیق (ص - د - ی - ق) (ع - ا - م - ث) [ذ - ا] دوست - مخلص دوست -
 صدیق (ص - د - ی - ق) (ع - ا - م - ث) [ذ - ا] ہم مبالغہ (۱) نہایت سچا - راست گو -
 (۲) حضرت ابوبکر خلیفہ اول کا لقب (۳) بارونادار جمع: صدیقین
 صدیقہ (ص - د - ی - ق) (ع - م - ث) [ذ - ا] ہم مبالغہ [صدیق کی نہایت -
 حضرت عائشہؓ کا لقب - حضرت مریمؑ کا لقب (۲) نہایت
 سچی عورت -

صرائی چھٹی - (۱) صف - ہنڈی - چیک - بل -
 صرصر - (ص - ر - ی - ز) (ع - ا - م - ث) [ذ - ا] آندھی - باد تندر - جھکڑ -
 صرصر - (ع - ا - م - ث) [ذ - ا] مرگی کا مرض - (۲) کھٹا کھانا -
 صرف (ع - ا - م - ث) [ذ - ا] (۱) خراج (۲) مشغول فیصرفوت (۳) وہ علم جس سے کوئی
 کی شناخت اور اقل بدل معلوم ہو -
 صرف کرنا - (م - س - م - ک - ب) خرچ کرنا - خرچ میں لانا (۲) بسر کرنا -
 صرف نظر کرنا - (ا - محاورہ) قطع نظر کرنا - نظر انداز کرنا -
 صرف ونحو - (م - م - ر) وہ علم جس میں لغظوں کا جوڑ توڑ اور ان کے ہونے برتنے
 کا قاعدہ بیان کیا جائے -
 صرف (ع - ص - ف) [ذ - ا] غافل - غافل - فقط - تنہا - اکیلا -
 صرف کہنے کی بات ہے - (ا - روزمرہ) بناوٹی اور چھوٹی بات ہے -
 صرفہ (ع - م - ر - ف) (ع - ا - م - ث) [ذ - ا] فائدہ - نفع (۲) خرچ (۳) فضول خرچی
 (۴) زیادتی - غلبہ - بخل - کجوسی - خست - کفایت شغاری (۵)
 انوس - دریغ -
 صرفہ کرنا - (ا - محاورہ) کفایت شغاری کرنا - کجوسی کرنا - بخل کرنا -
 صرائی (ص - ر - ی - ا) (ع - ا - م - ث) [ذ - ا] علم صرف بانسنے والا شخص (صف) علم
 صرف سے متعلق -
 صرہ (ص - ر - ہ) (ع - ا - م - ث) [ذ - ا] توڑا - قبیلہ - چھوٹی پتلی -
 صرٹیاں - (ص - ر - ی - ا) (ق - ا - م - ث) [ذ - ا] صرا حیاں -
 صرترج - (ص - ر - ی - ج) (ع - ص - ف) ظاہر - آشکار - صاف - علانیہ -
 صرترج انکار کرنا - (ا - محاورہ) ظاہر انکار کرنا - جان بوجھ کر انکار کرنا
 صاف انکار کرنا -
 صرٹیاں - (ص - ر - ی - ج) (ع - ص - ف) ظاہر - آشکار - صاف - علانیہ -
 صریر (ص - ر - ی - ر) (ع - ا - م - ث) [ذ - ا] قلم چلنے کی آواز - صدا

ص - ر

صرہ (ع - ا - م - ث) [ذ - ا] جاڑے کی سردی - ٹھنڈ - ٹھنکی
 صراح (ص - ر - ا - ح) (ع - ا - م - ث) [ذ - ا] کھلی ادھاف بات چیت (۲)
 خاص چیز (۳) ایک مشہور عربی لغت -
 صراحت (ص - ر - ا - ح - ت) (ع - ا - م - ث) [ذ - ا] تشریح - وضاحت
 صراحتاً (ص - ر - ا - ح - ت) (ع - ص - ف) [ذ - ا] کھلے کھلا - ظاہر -
 صراحی (ص - ر - ا - ج - ی) (ع - ا - م - ث) [ذ - ا] پانی یا شراب رکھنے کا لمبی گردن
 کا چھوٹا برتن (۲) کوزہ - بوتل (۳) محذوفی شکل کیڑے کا مکڑی جو ان کے
 وغیرہ کی دونوں بندوں کے پیچھے خوب صورتی کے لیے سی دیتے ہیں -
 صراحی دار - (ف - ص - ف) صراحی نما - اونچی گردن کا -
 صراحی دار گردن - (ف - ا - م - ث) [ذ - ا] لمبی گردن - مشہور فائدہ گردن -
 صراحی دار کھنگرو - (ا - م - ث) [ذ - ا] ایک قسم کے لمبوترے خوشنما کھنگرو جو بیشتر
 پانزیب میں لگاتے ہیں -

ص - ع
 صراف (ص - ر - ا - ف) (ع - ا - م - ث) [ذ - ا] سیدھا راستہ - راہ راست - (۲) اہل اسلام
 کے عقائد کے مطابق ایک پل جو درخ اور بہشت کے درمیان بال
 بسے بار یک اور توار سے تیز بنا ہوا ہے -
 صراط مستقیم - (ع - ا - م - ث) [ذ - ا] سیدھا راستہ - راہ راست -
 صراف (ص - ر - ا - ف) (ع - ا - م - ث) [ذ - ا] روپیہ پر کھنے والا - سونا چاندی پر کھنے
 والا (۲) ہاجن - ساہوکار (۳) مالدار دولت مند معاملے کا صاف
 کھرا (۴) پرکھنے والا - جانچنے والا -
 صرافہ (ص - ر - ا - ف) (ع - ا - م - ث) [ذ - ا] (۱) صرائی کا پیشہ (۲) صرافوں کا بازار -
 (۳) بینک - کوٹھی -
 صرافہ کھولنا - (ا - محاورہ) بینک جاری کرنا - صرائی کی دکان کھولنا -
 صرائی (ص - ر - ا - ی - ا) (ع - ا - م - ث) [ذ - ا] روپیے پیسے کا ہونا - ساہوکارہ
 کا بیج (۲) تروٹی - روپیہ یا پیسے کی تڑوہ کرانی (۳) ایک قسم کا ہندی
 خط جو ہاجن اور صراف لکھا کرتے ہیں - لٹڑے -

صفت (ع - ص - ف) [ذ - ا] سمجھ - دشوار - کھٹن - تکلیف دہ -
 صفتو ثبت (ص - م - ث - ب - ت) (ع - ا - م - ث) [ذ - ا] سختی - دقت - مشکل تکلیف
 مصیبت - جمع : صعوبات
 صعود (ص - ع - و - د) (ع - ا - م - ث) [ذ - ا] بلندی چڑھنا (۲) حساب میں کسی عدد
 کو کسی دفع ضرب دے کر اس کی نو توڑوں کو اچھاننا -
 صعود کرنا - (م - ص - م - ک - ب) اُپر چڑھنا -
 صعود و نزول - (ع - ا - م - ث) [ذ - ا] اُتار چڑھاؤ -
 صعوہ (ص - ع - و - ہ) (ع - ا - م - ث) [ذ - ا] مولا بھائی - انہمیاں کی دھوپ - ایک
 چڑیا جس کی لمبی دم ہر وقت اور جلد جلد حرکت کرتی رہتی ہے -
 صعید (ص - ع - ی - د) (ع - ا - م - ث) [ذ - ا] سطح زمین (۲) بٹی - (۳) پہاڑی بڑھک
 (۴) وہ مٹی جس سے مسح کریں -

ص - غ

صغارا - (ص - غار) [ع - ا - مذ] صغیر اور صغیر کی جمع - چھوٹے لڑکے اور لڑکیاں -

صغارا و کبار - (ع - ا - مذ) (۱) چھوٹے بڑے (۲) عوام
 صغیر - (ص - غر) [ع - ا - مذ] خوردی - چھٹائی - چھوٹا پن -
 صغیر سن - (ع - صغ) کم عمر - خورد سال -
 صغیر سنی - (ف - ا - مٹ) کم عمری - بچپن - خورد سالی -
 صغیرا - صغیری - (ص - غ - را) [ع - ا - مٹ] (۱) چھوٹی لڑکی - (۲) سب سے چھوٹی چیز (۳) علم منطقی میں شکل کا پہلا قضیہ -
 صغیر - (ص - غیر) [ع - صغ] چھوٹا - خورد سنی - جمع : صغارا
 صغیر سن - (ع - صغ) چھوٹی لڑکی -
 صغیر سنی - بچپن
 صغیر و کبار - چھوٹے بڑے - ادلے اعلیٰ -
 صغیرہ - (ص - غ - ی - ذہ) [ع - صغ] چھوٹی - چھوٹا - جمع : صغار

ص - ف

صفت - (ع - ا - مٹ) [ع - ا - مٹ] (۱) نظار - سلسلہ (۲) فرش - بستری - بچھونا (۳) بوریا چٹائی - (۴) نمازیوں کی قطار (جمع) صغوف -
 صفت آرا - (ع - ف - ص) [ع - صفت] جنگ یا مقابلے کے لیے سپاہ کا پراچلنے والا مقابلہ کرنے والا -

صفت آرا ہونا - (ا - محاورہ) لڑائی کے لیے تیار ہونا -
 صفت آرائی - صفت بندی - قطار بندی - جنگ آزمائی - نبرد آزمائی -
 صفت اٹلٹ جانا - (ا - محاورہ) تیز بہتر ہو جانا - درہم برہم ہو جانا - شکست کھانا -

صفت (صغیر) باندھنا - قطاروں لگانا - صفت بستہ کرنا -
 صفت بستہ - (ع - صغ) پرا باندھے ہوئے آراستہ -
 صفت بندی - (ع - ا - مٹ) پرا جانا -

صفت برصفت - (ع - ف - ص) صفت سے صفت ملا کر (۲) ہر صفت میں -
 صفت جنگ - (ع - ا - مٹ) لڑائی کی صفت آرائی - لڑائی کی پرابندی (۲) وہ لڑائی جو آئسے سائسے قطار باندھ کر شروع کی جاتے -
 صفت در - (ع - ف - صغ) لشکر کی صفت چھاڑنے والا - (۲) حضرت علیؑ کا لقب -

صفت روشن کرنا - (ا - محاورہ) چراغ جلانا -
 صفت شکن - (ع - ف - صغ) صفت ٹوڑنے والا - بہادر - دلیر -
 صفت کشی - (ع - ف - ا - مٹ) میدان جنگ میں پرا باندھنا -
 صفت مام - (ع - ف - ا - مٹ) وہ فرش جس پر مام کرنے والے یا مامی

اکرے بیٹھیں -

صفیں اُلٹنا - (ا - محاورہ) (۱) لڑائی کی صفت بستہ فوجوں کا تیز بہتر ہونا - (۲) مجلس یا محفل کا تہہ ڈالنا ہونا -

صففا - (ص - فا) [ع - صغ] (۱) پاک - پاکیزہ - مجلہ - صفت کیا ہوا (۲) ہوا سپاٹ (۳) کھرا - نزل (۴) ر - ا - مذ [ع - صغ] شریف کی ایک پہاڑی جہاں دوڑنا انکان حج میں داخل ہے -

صففا چٹ کرنا - (ا - محاورہ) بالکل مزہ ڈالنا - صففا یا کرنا -
 صففا چٹ میدان - بالکل صاف میدان جس میں درخت وغیرہ بالکل کوئی چیز نہ ہو -

صففا چٹ ہونا - (ا - محاورہ) بالکل صاف نہ ہونا - صاف ہونا -
 صفا کتنا - (ا - محاورہ) بے لاگ کتنا - کھری کھری ہونا -

صففا مشرب - (ع - صغ) صاف دل - صاف گو - بے لاگ -
 صففا صفا صفا - (ف - صغ) [ا - مذ] بے نشان - دیران - برباد -

صففات - (ص - فات) [ع - ا - مٹ] (۱) صفت کی جمع - اوصاف - خواص - خاصیتیں (۲) تعریفیں - بھلائیاں - خوبیاں -
 صففاقی - (ص - فاقی) [ع - صغ] عارضی - صفات سے متعلق -
 صففاقار - (صغ - فار) [ع - ا - مذ] ٹھیکہ اتنا جسے کے برتن بنانے والا -

صففاقی - (ص - فا - ی) [ا - مذ] (۱) پاکیزگی - صاف ہونا (۲) سچائی - راستی (۳) سادگی - بے وقوفی (۴) جھاڑ پونچھ (۵) چکنا چٹ (۶) ہمواری

(۷) ر لائی (۸) ملاپ - صلح (۹) کھرا پن (۱۰) حساب کی بیاتی - فیصلہ - (۱۱) دیانتداری (۱۲) بے شرمی - بے حیائی (۱۳) تیز رو (۱۴) کانت چھٹ (۱۵) فاقہ (۱۶) بربادی (۱۷) صفت (۱۸) فاقہ - انجام (۱۹) پھرتی حالانکہ (۲۰) رونق (۲۱) گواہی جو ملزم کے حق میں دی جائے - (۲۲) غلامت اٹھانا - پاخانہ صاف کرنا -

صففاقی ظاہر ہونا - (ا - محاورہ) دل کی پاکیزگی کا پتہ چلنا -
 صففاقی کا لختہ - (ا - مذ) تلوار کی بھر پور ضرب -
 صففاقی کرنا - (ا - محاورہ) صاف کرنا (۲) صلح کرنا (۳) پاخانہ صاف کرنا -
 صففاقی کر دینا - (ا - محاورہ) جھاڑ پونچھنا (۲) فیصلہ کر دینا - بے باقی کر دینا (۳) خرچ کر ڈالنا (۴) اچھاڑ دینا (۵) قتل کر دینا -

صففاقی کرنا - (ا - محاورہ) (۱) صاف کرنا - (۲) فیصلہ کرنا - جھگڑنا (۳) چکانا - بیلگانا (۴) صرف کرنا - اٹھا ڈالنا (۵) اچھاڑنا - تباہ کرنا (۶) دختوں کا چھانٹنا - (۷) باقی نہ رکھنا (۸) صلح کرنا (۹) پاخانہ صاف کرنا -

صففا یا - (ص - فایا) [ا - مذ] (۱) بربادی - تباہی (۲) کسی چیز کو نہ رہنے دینا - (۳) قتل -
 صففا یا کرنا - (ا - محاورہ) (۱) نیست و نابود کرنا - مٹا دینا - صاف کر دینا - کچھنہ دہنہ دینا -

صففت - (ص - فنت) [ع - ا - مٹ] (۱) کسی چیز کا نشان - بیان فضائل (۲) تعریف - خوبی - عمدگی (۳) خاصیت - صفت - عادت - تاثیر - (۴) وضع - شکل - طریق (۵) مثل - مانند (۶) صرف و نحو میں وہ اسم جس کے کسی چیز کی خصوصیت معلوم ہو - جمع : صففات -

صففت - (ص - فنت) [ع - ا - مٹ] (۱) کسی چیز کا نشان - بیان فضائل (۲) تعریف - خوبی - عمدگی (۳) خاصیت - صفت - عادت - تاثیر - (۴) وضع - شکل - طریق (۵) مثل - مانند (۶) صرف و نحو میں وہ اسم جس کے کسی چیز کی خصوصیت معلوم ہو - جمع : صففات -

صففت - (ص - فنت) [ع - ا - مٹ] (۱) کسی چیز کا نشان - بیان فضائل (۲) تعریف - خوبی - عمدگی (۳) خاصیت - صفت - عادت - تاثیر - (۴) وضع - شکل - طریق (۵) مثل - مانند (۶) صرف و نحو میں وہ اسم جس کے کسی چیز کی خصوصیت معلوم ہو - جمع : صففات -

صففت - (ص - فنت) [ع - ا - مٹ] (۱) کسی چیز کا نشان - بیان فضائل (۲) تعریف - خوبی - عمدگی (۳) خاصیت - صفت - عادت - تاثیر - (۴) وضع - شکل - طریق (۵) مثل - مانند (۶) صرف و نحو میں وہ اسم جس کے کسی چیز کی خصوصیت معلوم ہو - جمع : صففات -

صفت رکھنا - خوبی ہونا - خاصیت ہونا -

صفت سرا - (ع - صفت) تعریف کرنے والا -

صفت سرائی - (ع - ۱ - صفت) تعریف کرنا -

صفت مشبہ - (ع - صفت) وہ صفت جس میں وہی معنی ہمیشہ کے واسطے پائے جائیں جتنی صفت صفت موصوف - (ع - ۱ - صفت) کلمہ صفت جو کسی کی تعریف کی جائے جیسے نیک

آدمی - اس میں نیک صفت ہے اور آدمی موصوف -

صفتی انت - (ض - ف - صفت) (ع - ۱ - صفت) [صفت کی جمع -

صفتی - (صفت - صفت) (ع - ۱ - صفت) (۱) ورق کے ایک طرف کا رخ (۲) منہ

چہرہ - (۳) سطح - فراخی - وسعت -

صفتہ ہستی - (ع - ف - صفت) (۱) منہ [منہ کے زمین و دنیا -

صفت و ثنا - (ف - صفت) تعریف خوبیاں جو بیان کی جائیں -

صفتہ ہستی سے اٹھ جانا - (۱) محاورہ) مر جانا - گزر جانا -

صفتہ ہستی سے نام و نشان مٹنا - (۱) محاورہ) بالکل ناس ہو جانا - مر جانا -

ناپید ہو جانا -

صفتہ المظفر - (ض - ف - صفت) (ع - ۱ - صفت) دو درم زری ہمیشہ جو حرم کے بعد آتا ہے -

صفتہ - (ع - ۱ - صفت) (۱) حساب میں وہ لفظ جو عدد کے دائیں جانب ہونے سے

اس کی قیمت دس گنا بڑھاتا ہے اور بائیں جانب ہونے سے کچھ قیمت

نہیں پاتا (۲) (صفت) غالی - بھی - بے قیمت - بے وقعت -

صفترا - (صفت - را) (ع - ۱ - صفت) پتہ - اعلاط الاربعین سے ایک نذرنگ کا کڑواوا

صفتراوی - (صفت - راوی) (ع - صفت) صفترا سے منسوب -

صفتراوی مزاج - (ع - صفت) وہ شخص جس کے مزاج میں غلط صفترا زیادہ ہو - مزاج مزاج

صفتو - (صفت - فو) (ع - ۱ - صفت) تاش اور گچھ کی ایک اصطلاح یعنی کھیلنے والے

کے پاس پیتے بالکل نہ آنا -

صفتو دینا - (۱) تاش کا ایک ایک تاجیت لینا - حریف کے پاس کوئی

پتہ نہ چھوڑنا - صفت مات دینا -

صفتوش - (صفت - وشت) (ع - ۱ - صفت) (۱) برگزیدگی (۲) خالص - بہترین

(حرف اول کی تینوں حرکتوں کے ساتھ درست ہے) -

صفتہ - (ع - ۱ - صفت) مکان کے آگے کی دیوہی - دروازے کے آگے بیٹھے کی جگہ

چھوڑنا -

صفتو اللہ - مخلوق میں سے بہترین حضرت پیغمبر صلعم -

صفتوف - (ع - صفت) جمع - خفاہیں -

صفتوری - (ض - ف - صفت) (ع - صفت) [صفت سے منسوب جو ایران کے

ایک کامل فقیر تھے (۲) ایران کا ایک شاہی خاندان جو شاہ صفی سے منسوب ہے

صفتی - (ع - صفت) (۱) صفت پاک (۲) برگزیدہ دوست - خالص (۳) حضرت

آدم کا لقب -

صفتیر (ض - ف - صفت) [صفت] پرندوں کی آواز (۲) وہ سیٹی جو پرند کے لیے منہ سے جاتی

ص - ل

صل - (صل - ل) (ع - صفت) رحمت آنا (۲) نود و پنج -

صل علی - کلمہ تعریف و تحسین - واہ واہ سبحان اللہ - مرجیا -

صل علی کہنا - (۱) محاورہ) درود بھیجنا - واہ واہ کہنا سبحان اللہ کہنا -

صل علی محمد - (سرورِ ولایت حضرت) محمد (مصطفیٰ) پر درود ہو -

صل علی عمر و صلعم (صلی اللہ علیہ وسلم کا تحققت یعنی ان رضی اللہ تعالیٰ کا درود - رحمت اور سلام ہو -

صل علی و صل علی - (ع - کلمہ تحسین) سبحان اللہ - واہ واہ مرجیا سبحان اللہ -

صللا - (ع - ۱ - صفت) [صفت] پکار - آواز - دعوت -

صللا نہ شد بل اشد - (صل - صفت) [صفت] منہ لگا لگا باگلی سے بڑگے - بلاناہی غضب ہو گیا -

صللاء استغفر ذی - (ع - ف - صفت) (۱) صفت) وہ دعوت جو دل سے نہ دی جائے -

صللاء عام - (ع - ف - صفت) (۱) صفت) دعوت عام -

صللابت - (ض - لابت) (ع - ۱ - صفت) [صفت] سختی - مضبوطی - استحکام -

صللابت بہما - (ع - ۱ - صفت) [صفت] سختی و دشمنی کا اندازہ بتانے والا -

صلابت جنگ - (ع - ۱ - صفت) جنگی عہدیداروں کا خطاب -

صلالاح - (ض - لاج) (ع - ۱ - صفت) (۱) نیکی - بھلائی - بہتری - اچھائی (۲) مشورہ -

صلالت (۳) رائے - تدبیر - تجویز (۴) ارادہ - مشن -

صلالاح بتانا - (۱) محاورہ) رائے دینا - تدبیر بتانا - ڈھنگ بتانا -

صلالاح بچھنا - (۱) محاورہ) تجویز بچھنا - ارادہ مٹنا - رائے قرار پانا -

صلالاح بچھلنا - (۱) محاورہ) کسی کی رائے پر کام کرنا - کسی کا کہا ماننا -

صلالاح پچھنا - (۱) محاورہ) رائے لینا - مشورہ کرنا -

صلالاح ٹھہرنا - (۱) محاورہ) رائے قرار پانا - تجویز ٹھہرنا - ارادہ ہونا -

صلالاح دینا - (۱) محاورہ) رائے دینا - مشورہ دینا -

صلالاح سے (۱) منتقل تغل مشورے دینے سے - کہنے سننے سے سمجھانے سے -

صلالاح کار - (ع - ف - صفت) نا پختگی (۲) رائے لینے والا - مشورہ - ناصح - شریک مشورہ -

صلالاح کار کجا من خراب کجا - (ف - صفت) میرے ایسے لصیر کجاں جو مقصد پورا ہو سکے

صلالاح کرنا (لینا) (۱) محاورہ) رائے لینا - ارادہ کرنا - تدبیر سوچنا - مشورہ کرنا -

صلالاح مشورہ - (ع - ۱ - صفت) دوسروں سے کچھ کرنا - تدبیر و تجویز - ارادہ - منصوبہ -

صلالاح وقت - (ع - ۱ - صفت) [صفت] مصلحت - مناسب -

صلالاح حیت - (ض - لاج - حی - حیت) (ع - ۱ - صفت) (۱) نیکی - بھلائی - بہتری -

(۲) پرہیزگاری - پارسانی (۳) رسائی - پہنچ - یاقوت - سمجھ (۴) صفت

دستی - نرمی - (۵) ملامت (۶) پولیس کی رپورٹ -

صلالاحیت بھی - سیاہم جو پولیس یا محکمہ مال میں رہتا ہے - روزانہ پھر

صلالاحیت برآنا - (۱) محاورہ) راہ پر آنا - ٹھیک ہونا - درست ہونا -

صلالاحیت نگھنا - (۱) محاورہ) سرووں کے مسافروں کا نام پتا لگھنا - پورٹ لگھنا -

رجسٹر کرنا -

صللب - (ع - ۱ - صفت) (۱) پشت کے ٹہرے میں پھکی ہڈیاں (۲) سخت زمین

(۳) خاندانی بزرگی (۴) نطفہ - اولاد نسل -

صللبی - (ض - لب - بی) (ع - صفت) [صفت] سکا - اصلی حقیقی - نسلی - اپنے نطفے کا -

صللج - (ع - ۱ - صفت) (۱) میل ملاپ - دوستی - اتحاد - (۲) نئے سرے سے دوستی - آپس

کی صفائی (۳) امن و امان (۴) قانون تصعیر باجمی -

صللج دوست - (ع - ف - صفت) [صفت] وہ شخص جھگڑے اور فساد کو بند نہ کرے -

صللج کرنا - (۱) محاورہ) ملاپ کرنا - مل جانا - باہم صفائی کرنا - رجسٹر ڈور کرنا -

ص - ن

صنادید - (ص - نا - دید) (ع - ا - ند) (۱) صندی کی جمع - بزرگ شریف - سردار جنرل بادشاہ -

صنایا دید عجم - (ع - ف - ا - ند) عرب کے سوا باقی دُنیا کے بادشاہ -

صنایع - (ص - ن - ع) (ع - ا - ند) (۱) مذ و صفت بہت بڑا کاریگر ہنرمند - پیشہ ور -

صناعت - (ع - ا - م - ن) ہنر - کاریگری - دستکاری -

صنائع - (ص - نا - ع) (ع - ا - ند) [صنعت و صنعت اور صنعت کی جمع کا بگڑیا ہنر مندیاں -

صنائع بدائع - (ع - ا - ند) وہ عجیب غریب نکتا و بارکیاں جو نظم میں نفاہ کی جائیں

صندل - (ص - ن - دل) (ع - ا - ند) ایک قسم کی خوشبودار کڑی - چندن - اس کی دو قسمیں ہیں سُرخ اور سفید -

صندل کا پرادہ - (ا - ند) صندل کی کڑی کا سفوف جو داؤں میں استعمال ہوتا ہے -

صندل کا پھانسا - (ا - ند) گھسے ہوئے صندل میں کپڑا کر لیا گیا ہو تو یہ سوزش قلب کے لیے مفید ہے -

صندل کی سمجھتی - (ا - م - ن) نہایت صاف - سپاٹ - شفاف -

صندل کے چھالے مٹھ کو لگے - [ص - ن] بڑی بدنامی ہوتی -

صندل لاسا - (ص - ن - لا - سا) (ق - ا - ند) وہ پتھر جس پر صندل گھسے ہیں -

صندل لائی - (ص - ن - لا - ی) (ق - ا - ند) صندل پیچھے والی -

صندلی - (ص - ن - لی) (ق - ا - ص - ف) (۱) صندل کا رنگ صندلی رنگ سے

مشابہ - (۲) صندل کی کڑی کا بنا ہوا (۳) (م - ن) ایک قسم کی اونچی تپائی جو مخروطی شکل کی ہوتی ہے (۴) کرسی - چوکی -

صندوق - (ص - ن - وق) (ع - ا - ند) (۱) چوٹی نیس - بیٹی ٹرنک (۲) تابوت (۳) ابھرا ہوا - آگے نکلا ہوا - جمع : صنداوق -

صندوقچہ - (ص - ن - وق - چہ) (ق - ا - ند) چھوٹا نیس -

صندوقچی - (ص - ن - وق - چی) (ق - ا - ند) صندوق کی اُرد و تصغیر چھوٹا نیس -

صنوغ - (ع - ا - م - ن) کاریگری - ہنرمندی -

صنوغی - (ص - ن - ع - ا - ی) (ع - ص - ف) میں کے شہر صنوغا سے متعلق - صنوغا -

صنوغت - (ص - ن - ع - ن) (ع - ا - م - ن) کاریگری - پیشہ ہنر - دستکاری - کام -

صنوغت پروردگار - (ع - ا - ص - ف) فطری کاریگری - قدرتی ہنرمندی - خدا تعالیٰ کے عجیب و غریب کام -

صنوغت گاہ - (ع - ا - م - ن) کارخانہ - کام کرنے کی جگہ -

صنوغت دکھانا - (ا - م - ن) ہنر یا ٹھوٹی کا کوئی کام کرنا -

صنوغت گر - (ع - ف - ص - ف) ہنرمند - کاریگر -

صنوغت گری - (ع - ف - ا - م - ن) کاریگری - ہنرمندی -

صنوغت و حرفت - (ع - ا - م - ن) ہاتھ یا متین سے چیزیں بنانا فن صنوغت اور حرفت -

صنوغتی - (ص - ن - ع - تی) (ع - ص - ف) جو چیز صنوغت و حرفت سے تعلق رکھتی ہو -

صنوغتی محنت - (ع - ا - م - ن) وہ محنت جو صنوغت و حرفت کے سلسلے میں کی جائے -

صنوغتی نفسیات - (ع - ف - ا - م - ن) علم نفسیات جس کا تعلق صنوغت و حرفت سے ہو

صلح - (ع - ص - ف) وہ شخص جو ہنرمندت اور دوست دشمن سے یکساں سلوک رکھتے ہو

صلح نامہ - (ع - ن - ا - ند) صلح کا عدنانہ نامہ - ماضی نامہ -

صلحا - (ص - ل - ع) (ع - ا - ند) صلح کی جمع نیک - منتفی -

صلصال - (ع - ا - ند) گندھی ٹوٹی مٹی جس سے برتن بنتے ہیں سوکھی مٹی جو بجانے پر آواز دے -

صلصل - (ص - ل - صل) (ع - ا - م - ن) فاختہ - قمری -

صلصلہ - (ع - ا - ند) لوہے یا گندھی کی آواز - (۲) زنجیر -

صلصم - (ع - م - ل - ص) دیکھنے والی صلی اللہ علیہ وسلم جس کا یہ مخفف ہے -

صلوات - (ص - ل - و - ات) (ع - ا - م - ن) (۱) صلوات کی جمع - برکتیں - برکتیں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں ہوں (۲) (ا - ر) سلام کرنا -

خصت کرنا (۳) باز آنا (۴) (ا - ر) ہجو - گالی - دشنام -

صلوات صلواتیں سنانا - (ا - م - ن) بڑا جھلا کرنا - گالیاں دینا -

صلوات - (ص - ل - ات) (ع - ا - م - ن) (۱) دُعا - رحمت - خدا - دُعا (۲) نماز -

صلوات التبیح - ایک قسم کی نماز فعل جس میں قیام میں بندہ بار اور باقی چورنگے دس بار سبحان اللہ و الحمد للہ و لا الہ الا اللہ و اللہ اکبر پڑھتے ہیں -

صلوات الخوف - (ع - ا - م - ن) خوف کی جانگ کی حالت میں پڑھی جانے والی نماز جس میں دو جاعتیں باری باری ایک رکعت پڑھتے ہیں -

صلوہ - (ع - ا - ند) (۱) انعام - عطا - تحفہ - ہدیہ (۲) بدلہ - اجر - جزائے نیک (۳) (ن - ح) وہ جگہ جو آدمی موصول کے بعد آئے -

صلوہ دینا - (ا - م - ن) انعام دینا - بدلہ دینا یا محض دینا - اجرت یا مزدوری دینا -

صلوہ زخمی - (ع - ا - م - ن) عوزیوں اور رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا -

صلیب - (ص - ل - ی - ب) (ع - ا - م - ن) (۱) اس شکل (+) کی کڑی جس پر عیسائیوں کو لٹکا کر ہلاک کرتے تھے (۲) عیسائیوں کا مقدس نشان - دار - سولی -

صلیبی - (ع - ص - ف) صلیب سے منسوب اور متعلق (۲) عیسائی -

ص - م

صم - (ع - ا - م - ن) ہم کی جمع - ہرے - جبہیں سنائی نہ لے -

صم انگوٹھ - (ع - ا - م - ن) ہرے کو لگنے (۲) وہ شخص جو بات کا جواب نہ لے -

صمٹ - (ع - ا - م - ن) خاموشی -

صمٹہ - (ص - م - ن) (ع - ص - ف) (۱) نیاز - جو کسی کا محتاج نہ ہو اور سب اس کے محتاج ہوں (۲) خدا کا ایک صفاتی نام -

صمٹہ رت - (ص - م - ر - ت) (ع - ا - م - ن) اے نیازی -

صمٹہ نام - (ص - م - نام) (ع - ا - م - ن) بیخ بیزان جس کا منہ دھیرے (۲) تیز لٹا

صمیم - (ص - م - م - ی - م) (ع - ص - ف) (۱) خالص (۲) سچا بخلص (۳) (م - ن) گوڈا

(۴) کسی چیز کا بہترین حصہ - (۵) جوڑ - اصل - (۶) اندرونی حصہ - دل کا

سچلا حصہ - (۷) بہرا حصے سنائی نہ لے -

صمیر قلب - (ع - ا - م - ن) دل کی سچائی - خلوص - دل -

صنعتیت - (سنن - ع - قی - تیت) [ع - ا - مٹ] کسی چیز کو صنعتی بنانا۔
صنعت و حرفت والی بنانا۔
صنفت - [ع - ا - مٹ] نوع - جنس - قسم - گونہ - جمع : اصناف
صنفت نازک - [ع - ف - ا - مٹ] عورتوں کا طبقہ۔
صنعم - (ص - ن - م) [ع - ا - مذ] (۱) بنت - مورتی - پتی - کسی چیز کا بنا ہوا قالب
آبے جان - (۲) دلیر - پیارا - معشوق - جمع : اصنام
صنم خانہ - کدہ - (ف - ا - مذ) مندر - بیت خانہ - تھا کر دوارہ۔
صنم گری - (ف - ا - مٹ) بت تراشی - مجسم سازی۔
صنوبر - (ص - نو - بر) [ع - ا - مذ] (۱) چیلوڑے کا درخت (۲) ایک
نمک کا سر جس سے معشوق کے اند اور اس کے خرام کو تشبیہ دیتے ہیں

صورت اختیار کرنا - (۱) محاورہ ڈھنگ اختیار کرنا۔
صورت بسبب حالتش مپرس - (ف - مقولہ) کسے کی ضرورت نہیں سب کچھ
پھر سے سے ظاہر ہے۔
صورت بن پٹنا - (۱) محاورہ تدبیر نکل آنا۔
صورت بنانا - (۱) محاورہ (۱) تصویر بنانا شکل بنانا (۲) بھیس بدلنا (۳) منہ
چڑھانا منہ بنانا (۴) خاک کر ڈھالنا (۵) غری اور بے مکیفی ظاہر ہونا۔
صورت پرست - [ع - ف - ص] بت پرست - ظاہر پرست۔
صورت پکڑنا - (۱) محاورہ (۱) شکل بنانا (۲) رنگ اختیار کرنا (۳) کسی طریقہ
کو قبول کرنا۔

صورت پیدا کرنا - (۱) محاورہ کوئی تدبیر لگانا۔
صورت نچنا - (۱) محاورہ غور سے منہ دکھنا حیرت سے منہ کھینا۔
صورت نو دکھو - (۱) محاورہ چھوٹا منہ بڑی بات - طنزاً - نا اہلی کے اظہار
کے لیے کہا جاتا ہے۔

صورت چڑیلوں کی مزاج (دماغ) پوریوں کا - (۱) مثل بد شکل پرید باغ۔
بد صورتی پر ایسا مزاج۔

صورت حال - [ع - ا - مٹ] صورت - معاملہ - کیفیت - ظاہری رونماد۔
صورت حرام - [ع - ص] جو چیز دیکھنے میں خوش نما لیکن ذائقے میں

قابل نفرت ہو - ظاہری قریب ٹاپ -
صورت دار - [ع - ف - ص] خوب صورت - تشکیل۔

صورت دکھنا رہ جانا - (۱) محاورہ حیران رہ جانا۔
صورت دیکھ کر جینا - (۱) محاورہ عاشق زار ہونا۔

صورت نہہر لگنا - (۱) محاورہ ہمت نفرت ہونا۔
صورت سوال ہے - (۱) مثل شکل سے ظاہر ہے کہ سوال ہے۔

صورت سے بیزار ہونا - (۱) محاورہ کسی کے دیکھنے کو دل نہ چاہنا۔
صورت سے ٹپکنا - (۱) محاورہ شکل سے ظاہر ہونا۔

صورت کو ترس جانا - (۱) محاورہ ملاقات کا موقع نہ ملنا۔
صورت کہے دیتی ہے - (۱) محاورہ شکل سے ظاہر ہے۔

صورت نظر آنا - (۱) محاورہ شکل سے دکھائی دینا (۲) کوئی طریقہ یا تدبیر
سوچنا - (۳) موقع ملنا۔

صورت نکل آنا - (۱) محاورہ ذریعہ رکھ لیا آنا (۲) حسین ہو جانا۔
صورت گر - [ع - ف - ص] مصوڑ - نقاش۔

صورت گری - [ع - ف - ا - مٹ] مصوڑی - نقاشی۔
صورت نہ شکل بھارے سے نکل - (۱) مثل بصورت آدمی کی نسبت طنزاً کہتے ہیں

صورت پر ہے - (۱) محاورہ بات یہ ہے - حال یہ ہے۔
صورتنا - (صوڑ - ن - ن) [تابع فعل] ظاہر - بظاہر۔

صورتی - (صوڑی) [ع - ا - مٹ] ظاہری - صوڑی کی ضد۔
صورت - [ع - ا - مذ] (۱) آؤں - منہ - کمل (۲) ایک نم کا دبیر پینے کا کپڑا۔

(۳) وہ کپڑا جو دوات میں سیاہی کے ساتھ لکھا جاتا ہے (۴) گولٹا بننے کا بانا۔
صورت ڈالنا - (۱) محاورہ روایت میں کچھ ڈالنا۔

صورتہ - [ع - ا - مذ] مکان کا بڑا کمرہ - سپرنگوں والی کرسی۔

ص - و

صواب - (ص - و اب) [ع - ا - مذ] نیکی - نیک کام - درست عمل - راست چوڑ۔
صواب اندیش - [ع - ف - ا - ص] ٹھیک اور مناسب سوچنے والا
بستری کی سوچنے والا۔

صواب دید - [ع - ف - ا - مٹ] نیک صلاح - اچھی تجویز - منظوری - مصلحت۔
صواب - [ع - ا - مذ] (۱) طرف سمت (۲) راستہ (۳) تجویز - ارادہ۔

صواب جانی - (صو - با - ای) [ا - ا - ص] صوبے سے متعلق - پراوشل۔
صوابجات - (صو - بہ - جات) [ف - ا - مذ] صوبہ کی جمع۔

صوبہ - (صو - بہ) [ع - ا - مذ] (۱) ریاست یا ملک کا وہ حصہ جس میں بہت سے
اضلاع شامل ہوں کسی ملک کی سب سے بڑی انتظامی وحدت۔

صوبہ دار - [ع - ف - ص] (۱) حاکم صوبہ (۲) پیادہ سپاہ کا افسر۔
صوبہ داری - [ع - ف - ا - مٹ] صوبے کی حکومت - نظامت (۲) صوبہ دار کا کھڑو

صورت - [ع - ا - مٹ] بانگ - آواز - صدا - ندا - جمع : اصوات
صورت پیمانہ - [ع - ف - ا - مذ] آواز کی پیمائش کرنے والا آلہ۔

صوتی - [ع - ص] آواز سے متعلق۔
صوتیات - (صوتی - یات) [ع - ا - مٹ] وہ علوم و فنون جو آواز سے تعلق
رکھتے ہیں۔

صوڑ - [ع - ا - مذ] تڑی - بگل - نیفری - قرنا۔
صوڑا سر انیل - [ع - ا - مذ] وہ آواز جو حضرت اسرافیل حشر کے ذریعہ دنیویا

ڈالنے کے لیے اور دوسری دفعہ جلانے کے لیے نکالیں گے۔
صورت - (صوڑت) [ع - ا - مٹ] (۱) شکل چہرہ - منہ - ٹوکڑا - (۲) نقش

تصویر (۳) خاکہ - ڈھانچا - (۴) حالت - کیفیت (۵) طرح - طور طریق
ڈھنگ (۶) تدبیر - تجویز (۷) مانند - مثل - مشابہ (۸) موقع - محل (۹) ظاہر

(۱۰) بھیس - دپ (۱۱) علامت - نشان (۱۲) نکل - کام (۱۳) صورت - بیت
صورت آشنا - [ع - ف - ص] جان پہچان - معمولی واقف - بروشناس۔

صورت آشنا ہونا - (۱) محاورہ صورت پہچاننا - جان پہچان ہو جانا۔
صورت آئینہ حیران رہ جانا - (۱) محاورہ بے حد حیرت ہونا۔

روزہ رکھنے والے (۲) روزہ رکھنا۔
 صیدانٹ - (ص۔ یانٹ) [ع۔ امت] انگہانی حفاظت۔ پاسبانی۔ بچاؤ۔
 صیغہ - (صغہ) [ع۔ ع۔ ا۔ ند] سخت یا بلند آواز۔ نعرہ چنگھاڑ
 صید - [ع۔ ا۔ ند] (۱) شکار۔ وہ جانور جس کو شکار کریں (۲) ہمیشہ اور ہم کار
 آدمیوں کی باہمی صدا اور لڑائی۔
 صیدانگن۔ صیدانداڑ۔ [ع۔ ف۔ صف] شکار کرنے والا۔ شکاری۔
 صید بڑنا۔ (۱) محاورہ) کبوتر کو پکڑ کر نہ دینے کا عند کرنا۔ صید باندھنا۔
 صید کرنا۔ (۱) محاورہ) (۱) شکار کرنا۔ پکڑنا۔ (۲) قابو میں لانا۔ فریقہ کرنا۔
 صید گاہ۔ (۱) محاورہ) شکار گاہ۔ شکار کھینے کی جگہ۔
 صیدی - (صغہ دی) [ف۔ ا۔ ند] شکاریوں کی اصطلاح میں وہ شخص جو اپنے
 ہمیشہ آدمیوں سے صدا اور لڑائی رکھے۔
 صیرنی - [ع۔ صف] صراف۔ کھوٹا کھرا پرکھنے والا۔ (۲) کاموں میں دخل
 دینے والا۔

صوفی - (صو۔ فی) [ع۔ ا۔ ند] (۱) ایشیہ پوش (۲) شفیق۔ پارسا۔ پرہیزگار۔
 صوفی صافی - [ع۔ صف] فقرہ کی اصطلاح میں وہ شخص جو اپنے دل کو غیر حسی
 سے پاک صاف رکھے۔
 صوفی منش - [ع۔ ف۔ صف] صوفی طبیعت کا۔ درویشانہ مزاج کا۔
 صوفیانہ - (صوفت۔ یا۔ نہ) [ف۔ ا۔ ند] (۱) منسوب بہ صوفی۔ صوفیوں کا۔
 سادہ۔
 صوفیہ - (صوفت۔ یہ) [ع۔ ا۔ ند] صوفی کی جمع۔ پرہیزگار لوگ۔
 صولت - (صو۔ لنت) [ع۔ ا۔ مٹ] ذبیحہ۔ رجب۔ ہیبت۔
 صوم - [ع۔ ا۔ ند] روزہ۔ برت۔ جمع: صیام
 صوم و صلوٰۃ - روزہ۔ نماز۔
 صومعہ - (صوم۔ تم۔ غہ) [ع۔ ا۔ ند] (۱) گرجا۔ (۲) عبادت خانہ
 صومعہ نشین - [ع۔ ف۔ اعل] اہلب۔ نازک الدنیا۔

ص۔ ہ

صہبا - (صہ۔ با) [ع۔ ا۔ مٹ] ایک قسم کی لال شراب۔ سفید انگوروں کی
 شراب۔
 صہم - [ع۔ ا۔ ند] (۱) خمر۔ داماد (۲) سسرال کا کوئی آدمی۔
 صہیشل - [ع۔ ا۔ مٹ] گھور شے کا ہنہانا۔

ص۔ ی

صیغہ - (صی۔ غہ) [ع۔ ا۔ ند] (۱) سلیغہ میں ڈھلی ہوئی چیز (۲) طریقت
 خلقت۔ اصل - (۳) وہ مشتق اور منصرف کلمہ جو کسی اصل لفظ
 سے نکالا گیا ہو۔ (۴) اہل تشیع میں کلمات ایجاب و قبول نکاح۔
 عقد - (۵) حکمہ۔ شعبہ۔ جمع: صیغہ جات
 صیغہ پڑھانا - (۱) محاورہ) اہل تشیع میں نکاح پڑھانا۔ ایجاب و قبول کرنا۔
 صیغہ گردانا - (۱) محاورہ) فعل کی گردان کرنا۔
 صیققل - (صغہ۔ قل) [ع۔ ا۔ ند] جلا۔ صفائی۔ آب چمک۔
 صیققل کرنا - (۱) محاورہ) جلا دینا۔ صاف کرنا۔ چمکانا۔
 صیققل گر - [ع۔ ف۔ ا۔ ند] صغہ [ع۔ ا۔ ند] جلا کرنے والا۔ پتھیا صاف کرنے
 اور سان پر چڑھانے والا۔
 صیہونی - (صغہ۔ ہونی) [ع۔ صف] یہودیوں کی عالم گیر تحریک وطن سے
 متعلق۔ یہودیت سے متعلق۔
 صیہونیت - (صغہ۔ ہونی۔ نی۔ یت) [ع۔ ا۔ مٹ] (۱) یہودیت (۲)
 یہودیوں کی عالم گیر تحریک وطن۔

صیبا د - (صی۔ یاد) [ع۔ ا۔ ند] شکاری۔ چڑی مار۔ ماہی گیر۔ جمع: صیباداں
 صیباداں - (ف۔ ا۔ ند) فرشتہ موت۔ ملک الموت۔ عزرائیل۔
 صیام - (صی۔ یام) [ع۔ ا۔ ند] (۱) صوم کی جمع۔ روزے (۲) صائم کی جمع۔

ض

ض۔ (ضاد۔ ضراد) (ض۔ ا۔ ۱۔ مذ) اردو کا اکتیواں ناسی کا اٹھارھواں اور عربی کا پندرھواں حرف (۲) اس کو صاد موجد یا مستقوٹ بھی کہتے ہیں۔ حساب الجدید میں اس کے آٹھ سو عدد فرض کیے گئے ہیں۔ عربی کے اعتبار سے یہ ششمی حرف ہے اس سے پہلے ال آئے تو لام بولا نہیں جائے گا اور ض مشدد بڑھا جائے گا۔

ضائع کرنا۔ (مسن۔ مرکب) (۱) برباد کرنا۔ (۲) اڑانا (۳) بے کار اور نکما کرنا (۴) مارنا۔ قتل کرنا۔
ضائع ہونا۔ (۱) محاورہ (۲) برباد ہونا۔ (۳) خراب ہونا (۴) فوت ہونا۔ مارا جانا۔

ض — ا

ضابطہ۔ (ضاب۔ بط) (ض۔ ع۔ صفت) (۱) حفاظت میں رکھنے والا (۲) انتظام کرنے والا۔ (۳) مدبر (۴) حاکم۔ مالک۔ تابعین (۴) پابند قاعدہ۔ محتاط (۵) مستعمل۔ صابر۔
ضابطگی۔ (ضاب۔ ط) (گی۔ ذ) (۱) مشق (۲) مشق قانون و ضابطہ کے مطابق ہونا۔
ضابطہ۔ (ضاب۔ ط) (ض۔ ع۔ ۱۔ مذ) (۱) قاعدہ۔ قانون۔ دستور العمل (۲) انتظام۔ بندوبست۔ ربط و ضبط۔ جمع: ضوابط۔
ضابطہ تعزیری۔ (ض۔ ع۔ ۱۔ مذ) سزا دینے کا قانون۔
ضابطہ دیوانی۔ (ض۔ ع۔ ۱۔ مذ) دیوانی قانون۔ وہ قانون جس میں باہمی لین دین کے قواعد منضبط ہوں۔
ضابطہ عدالت۔ (ض۔ ع۔ ۱۔ مذ) عدالت کا طریقہ عمل۔
ضابطہ کی رو سے۔ (۱) تابع فعل، قاعدہ اور قانون کے مطابق حسب ضابطہ
ضابطہ فوجداری۔ (ض۔ ع۔ ۱۔ مذ) قانون فوجداری جرائم۔ انسداد کا دستور العمل
ضابطہ مال۔ (ض۔ ع۔ ۱۔ مذ) صیغہ مال کا قانون۔ خزانہ یا مال گزاری کے متعلق قانون۔

ض — ب

ضبط۔ (ض۔ ب۔ ۱۔ مذ) (۱) نگہبانی۔ حفاظت۔ ہوشیاری (۲) انتظام۔ بندوبست (۳) روک رکاوٹ (۴) قید۔ پابندی (۵) ترق۔
ضبط کرنا۔ (مسن۔ مرکب) (۱) روکنا۔ نگرانی کرنا۔ (۲) ترق کرنا (۳) قانون باندھنا۔ قابو کرنا (۴) پینا۔ جذب کرنا۔
ضبط ہونا۔ (مسن۔ مرکب) ترق ہونا۔ پھینکا۔ کسی جرم میں مال و جائداد کا سرکاری ہوجانا (۲) نکل ہونا۔ برداشت ہونا۔ بڑباری ہونا۔
ضبطی۔ (ض۔ ب۔ ۱۔ مذ) (۱) امرت (۲) ترقی (۳) نگرانی۔ عدالت کے حکم سے کسی کا مال لے لینا۔
ضبطی مجاہد۔ (ضبطی) مال۔ (ض۔ ا۔ امرت) (۲) دھن دولت کی ترقی۔
ضبطی میں آنا۔ (۱) محاورہ، ترقی ہونا۔ پھین جانا۔ سرکاری ہوجانا۔

ض — ج

ضج۔ (ض۔ ج۔ ۱۔ مذ) (۱) پھر دن چوٹے یا دس بجے کا وقت۔
ضجاک۔ (ض۔ ج۔ ۱۔ صفت) (۱) بہت ہنسنے والا (۲) ایک ایرانی بادشاہ جو بڑا ظالم اور جابر تھا۔
ضجک۔ (ض۔ ج۔ ۱۔ امرت) ہنسا۔
ضجک۔ (ض۔ ج۔ ۱۔ مذ) وہ جس پر سب ہنسیں۔ جو سب پر ہنسنے۔

ض — خ

ضخامت۔ (ض۔ خ۔ صفت) (ض۔ ا۔ امرت) (۱) جم۔ جسامت۔
ضخیم۔ (ض۔ خ۔ ۱۔ صفت) (۱) بڑے حجم والا۔ بہت بڑا۔ موٹا۔

ضجک۔ (ض۔ ج۔ ۱۔ صفت) (۱) ہنسنے والا۔ ظریف۔ مسخرا۔
ضجرب۔ (ض۔ ج۔ ۱۔ صفت) (۱) مارنے والا۔ چوٹ لگانے والا۔
ضجال۔ (ض۔ ج۔ ۱۔ صفت) (۱) گراہ۔ بھٹکا ہوا۔ جمع: ضجالین۔
ضجمن۔ (ض۔ ج۔ ۱۔ مذ) (۱) ذمہ دار۔ وہ شخص جو کسی کی ضمانت لے کیں (۲) وہ کلائی کی پتھر جو تختے کی نئے کے درمیان باندھ دیتے ہیں (۳) وہ وہی جس سے دودھ جاتے ہیں۔ ماہ شیر۔
ضجمن درضامن۔ (ض۔ ج۔ ۱۔ صفت) کینل کا کینل۔ ذمہ دار کا ذمہ دار
ضجمن نہ ہو جیسے گرہ سے دیگیے۔ (ض۔ ج۔ ۱۔ صفت) (۱) گراہ سے دینے میں ہرگز نہیں، مگر ضمانت دینے میں خرابی ہے۔
ضجمنی۔ (ض۔ ج۔ ۱۔ صفت) (۱) ضمانت۔ کفالت۔ ذمہ داری۔
ضجمنی پر چھوڑنا۔ (۱) محاورہ، ضمانت یا ذمہ داری پر دیا کرنا۔
ضجمنی دینا۔ (۱) محاورہ، ضمانت دینا۔ کینل یا ذمہ دار بننا۔
ضجمنی قبول کرنا۔ ضجمنی منظور کرنا۔ (۱) محاورہ، کسی کی کفالت یا ذمہ داری کو تسلیم کرنا۔
ضجنا۔ (ض۔ ج۔ ۱۔ صفت) (۱) کالت۔ تلف۔ رائیگاں۔ بے نام و لااصل۔

ض۔ و۔

ضد۔ (ع۔ ا۔ مٹ) (۱) برعکس۔ مخالف۔ خلاف (۲) دشمنی۔ عداوت۔ بُغض۔ (۳) ہٹ۔ آڑ (۴) سینہ زوری۔ آناہیت (۵) غصہ (۶) تقصیب۔
 ضد بانڈھنا۔ (۱) محاورہ (۲) بہت اصرار کرنا۔ ہٹ کرنا (۳) دشمنی کرنا۔
 مخالفت کرنا (۴) بحث کرنا۔
 ضد پیر آنا۔ (۱) محاورہ (۲) اصرار کرنا۔ ہٹ کرنا۔ مخالفت پر کمر بانڈھنا۔
 ضد پوری کرنا۔ (۱) محاورہ (۲) کسی کی ہٹ کے موافق کرنا۔ کسی کے کہنے کے بموجب کر دینا۔
 ضد چڑھنا۔ (۱) محاورہ (۲) غصہ پڑھنا۔ اڑنا۔ ہٹ پر آنا۔
 ضد رکھنا۔ (۱) محاورہ (۲) دشمنی رکھنا۔ مخالفت رکھنا۔ کینہ رکھنا۔
 ضد کا پورا ہے۔ (۱) محاورہ (۲) اپنی ہٹ پر اڑا رہنے والا۔
 ضد کرنا۔ (۱) محاورہ (۲) اصرار کرنا۔ ہٹ کرنا (۳) بحث و تکرار کرنا۔ جھگڑنا۔
 ضد مٹنا۔ (ع۔ و۔ ف۔ ا۔ مذ) ایک کا دوسرے کے خلاف ہونا۔
 ضدی۔ (ضد۔ وی) (اڑ۔ صفت) (۱) بہت اصرار کرنے والا۔ مستعصب ہٹ کرنے والا۔
 ضدین۔ (ضد۔ دین) (ع۔ ا۔ مٹ) (۱) دو ضدین۔ دو لغتیں اور مختلف چیزیں۔

ض۔ ر۔

ضراب۔ (ض۔ راب) (ع۔ ا۔ مذ) روپیہ امرنی پر چھپا لگانے والا۔
 ضراب۔ (ض۔ راب) (ع۔ ا۔ مذ) کسی کو تلوار مارنا۔
 ضرار۔ (ض۔ رار) (ع۔ ا۔ مذ) (۱) ایک دوسرے کو نقصان پہنچانا (۲) ہمد رسالت میں مدینہ میں منافقوں کی ایک مسجد۔
 ضرب۔ (ع۔ ا۔ مذ) (۱) مار چوٹ۔ دھکا۔ حدمہ (۲) علم حساب میں جمع کا ایک قاعدہ (۳) بیان۔ ذکر (۴) چھپا۔ مہر (۵) شمار ظاہر کرنے کا عدد (۶) نقصان۔ گھٹانا (۷) تشریح زنی۔ صوفیوں کا کسی اسم یا کلمے کو خاص زور اور جھٹکے کے ساتھ پڑھنا جس سے دل پر چوٹ لگے۔
 (۸) (ق) بشل۔ مانند بدل۔
 ضرب آنا۔ (۱) محاورہ (۲) چوٹ آنا۔ دھکا لگنا (۳) گھٹانا آنا۔
 ضرب اٹھانا۔ (۱) محاورہ (۲) ضد اٹھانا۔ نقصان گوارا کرنا۔
 ضرب اٹشل۔ (ع۔ ا۔ مٹ) کہاوت۔ وہ جگہ جو شمال کے طور پر مشہور ہو۔
 ضرب المثل ہونا۔ (۱) محاورہ (۲) کہاوت کی طرح مشہور ہونا۔ بہت شہرت پانا
 ضرب چلیپا۔ (ع۔ و۔ ف۔ ا۔ مٹ) (۱) خاص قسم کی ضرب جو آڑی لگائی جاتی ہے۔
 ضرب خانہ۔ (ع۔ و۔ ف۔ ا۔ مذ) دارالمعرب۔ مکسال۔ جہاں سکتے
 ڈبعلے جاتے ہیں۔
 ضرب تخیف۔ (ع۔ و۔ ف۔ ا۔ مٹ) ہلکی چوٹ۔

ضرب دینا۔ نقصان دینا۔ ضرب پہنچانا (۲) جمع کرنے کے لیے اعداد کو باہم ملکانا (۳) ہٹ کر پھینکنا۔
 ضرب شدید۔ (ع۔ و۔ ف۔ ا۔ مذ) سخت چوٹ۔ ہلک ضرب۔
 ضرب شمشیر۔ (ع۔ و۔ ف۔ ا۔ مٹ) تلوار کا زخم۔ تلوار کا ہاتھ۔
 ضرب کی تاب نہ لانا۔ (۱) محاورہ (۲) دار کو برداشت نہ کر سکتا۔
 ضرب لازب۔ وہ چوٹ جس کا نشان اچھا ہونے کے بعد بھی قائم رہے۔
 ضرب لگانا۔ (۱) محاورہ (۲) چوٹ لگانا۔ مارنا (۳) تلوار مارنا (۴) چھپا لگانا۔
 چھاپ لگانا (۵) اس طرح خدا کا نام لینا یا کلمہ پڑھنا جس سے دل کو چوٹ لگے اور وہ بیدار ہو جائے۔
 ضرب مرکب۔ ایک قسم کا ضرب جس میں نقدی یا کسی جنس وغیرہ کے مختلف حصوں میں ضرب دیں جیسے روپے آنے پائی کو کسی خاص عدد میں ضرب دے کر ایک مجموعہ معلوم کرنا۔ ضرب مخلوط۔
 ضرب مرکب۔ (ع۔ ا۔ مذ) حساب کا ایک قاعدہ جس میں نقدی یا جنس کے ذریعہ وغیرہ کو مختصر ترکیب سے کئی گنا کرتے ہیں۔
 ضرب مفرد۔ ضرب سادہ۔ ضرب بسیط۔ ضرب غیر مرکب۔
 ضرب ہلک۔ (ع۔ و۔ ف۔ ا۔ مٹ) ہلک کر دینے والی چوٹ۔
 ضربات۔ (ض۔ بات) (ع۔ ا۔ مٹ) ضرب کی جمع۔ چوٹیں۔
 ضرر۔ (ض۔ رر) (ع۔ ا۔ مذ) (۱) نقصان۔ بخارہ۔ زہاں (۲) درد۔ تکلیف۔ حدیث ضرر جہانی۔ (ع۔ و۔ ف۔ ا۔ مٹ) جسمانی تکلیف۔ جسمانی چوٹ۔
 ضرر رساں۔ (ض۔ صفت) نقصان پہنچانے والا۔
 ضرر رسائی۔ (ع۔ ا۔ مٹ) ایذا پہنچانا۔ تکلیف دینا۔
 ضرر صریح۔ (ع۔ ا۔ مٹ) (۱) دھکی (۲) مار پیٹ (۳) زخمی یا کسی عضو کے لیے کار کرنے سے پہنچا ہوا نقصان یا چوٹ۔
 ضرغام۔ (ض۔ غام) (ع۔ ا۔ مذ) پھارنے والا شیر۔ اسد۔
 ضرور۔ (ض۔ رر) (ع۔ ا۔ مٹ) (۱) واجب۔ لازم۔ وہ بات جس کا ہونا فرض ہو (۲) درکار۔ مطلوب (۳) بے شک۔ بجا۔ درست (۴) اصل (۵) حاجت۔ ضرورت۔ خواہش (۶) البتہ۔ لاکلام (ظہر آقا) جب کسی سے کہنا ہو کہ کام نہیں کیا۔ ہرگز نہیں۔
 ضرور بالضرور۔ (متعلق فعل) تاکہ کے واسطے۔
 ضرور نہیں۔ (متعلق فعل) (۱) لازم نہیں (۲) درکار نہیں۔
 ضرور ہے۔ (متعلق فعل) (۱) واجب ہے (۲) درکار ہے۔ خواہش ہے۔
 ضرورت۔ (ض۔ رر) (ع۔ ا۔ مٹ) (۱) حاجت۔ خواہش۔ مانگ۔ طلب۔
 ضرورت ایجاد کی مال سے۔ (۱) مٹ) جب کسی چیز کی ضرورت پڑے تو انسان کو کوئی نئی چیز کی انتظام کرنا ہی پڑتا ہے۔
 ضرورت کے وقت گدھے کو بآب بناتے ہیں۔ (۱) مٹ) لاجاری کے وقت ادنی لوگوں کی بھی خوشامد کرنا پڑتی ہے۔
 ضرورت مند۔ (ع۔ ا۔ مذ) حاجت مند۔ تنگ حال۔ مفلس۔
 ضرورتاً۔ (ض۔ رر) (ع۔ ا۔ مٹ) (۱) ضرورت سے۔
 ضروری۔ (ض۔ رر) (ع۔ ا۔ مٹ) (۱) واجب۔ لازمی۔ ناچار۔ ناگزیر۔

ض۔ ف۔

ضفدع۔ (ضف۔ دوع) (ع۔ ا۔ مذ) مینڈک۔

ض۔ ل۔

ضفل۔ (ع۔ ا۔ مذ) غلطی کرنا۔ گمراہ ہونا۔ بھٹکانا۔

ضلال (ضلالیت)۔ (ع۔ ا۔ مٹ) (ا۔ گمراہی۔ تباہی (۲) گناہ۔ خطا۔ ضلوع۔ (ض۔ ل۔ ع) (ع۔ ا۔ مٹ) (ا۔ پست۔ کیر۔ حد۔ خط (۲) بزد۔ جھوٹ۔ حاکم ضلع کا صدر مقام۔ صوبے کا وہ حصہ جو قبضی کشن کے ماتحت ہو (۳) رعایت لفظی ذومعنی بات۔

ضلع بندی۔ (ع۔ ف۔ ا۔ مٹ) صوبے کی ضلع وارتقسیم۔ ضلع جھنگ۔ (ا۔ مٹ) پہلو دار بات جس میں لفظ رعایت پائی جائے۔ ضلع دار۔ (ضلعدار) (ا۔ بھجان ضلع۔ زمینداروں سے مالگداری وغیرہ وصول کرنے والا افسر (۲) صیغہ آبپاشی کا وہ افسر جو پانی کا حساب لگاتا ہے۔ ضلعدار۔ ضلعدار کا عہدہ یا کام۔

ض۔ م۔

ضم۔ (ع۔ ا۔ مذ) (ا۔ لانا۔ شامل کرنا۔ پیش کی حرکت۔ ضمہ۔

ضماد۔ (ض۔ م۔ ا۔ مذ) ایپ۔ دوا کو نرم کر کے جسم پر لگانا۔ ضمانت۔ (ض۔ مانت) (ع۔ ا۔ مٹ) ذمہ داری۔ کفالت۔ ضامن۔ ضمانت دینا۔ (ا۔ محاورہ) کسی کا ضامن بننا۔ تحریری ضمانت نامہ داخل کرنا کسی کو ضامن پیش کرنا۔

ضمانت ضبط ہونا۔ (ا۔ محاورہ) ضامن سے شرط ضمانت پوری نہ ہونے کی صورت میں نقد روپیہ وصول کرنا۔

ضمانت کرنا۔ (ا۔ محاورہ) ضامن دینا کسی کا ضامن بننا یا ہونا۔

ضمانت تحفظ امن۔ امن قائم رکھنے کی ضمانت۔

ضمانت پر ہونا (رہا ہونا)۔ (ا۔ محاورہ) کسی کی ذمہ داری پر رہا ہونا۔

ضمانت داخل کرنا۔ (ص۔ مکتب) عدالت میں تحریری ضمانت دینا۔

ضامن ہونا۔

ضمانت نامہ۔ (ع۔ ف۔ مذ) تحریری ضمانت کفالت نامہ۔

ضمانت۔ (ض۔ مان۔ جن) (ع۔ تابع ضل) کفالتاً بطور ضمانت۔

ضمانتی۔ (ض۔ مان۔ تی) (ا۔ ا۔ مذ) ضامن۔ ذمہ دار۔ ضمانت۔ (ض۔ مان۔ ا۔ مٹ) (ع۔ ا۔ مٹ) ضمیر کی جمع۔ ہم کے بدل۔ دیکھیے ضمیر۔

تاکیدی۔ اہم۔

ضروریات۔ (ض۔ ضروری۔ یات) (ع۔ ا۔ مٹ) [ضروری چیزیں۔ استعمال کی چیزیں۔

ضروریات زندگی۔ (ع۔ ا۔ مٹ) وہ چیزیں جو انسان کے زندہ رہنے کے لیے ضروری ہیں۔ کھانا پینا وغیرہ۔

ضریح۔ (ض۔ یح) (ع۔ ا۔ مٹ) (۱) قبر۔ وہ قبر جو سیدھی کھودی جائے۔ ایک طرف کھودی جانے والی کو لحد کہتے ہیں (۲) ایک قسم کا تزیین جو گنبد نما ہوتا ہے۔

ض۔ ع۔

ضعف۔ (ع۔ صفت) دو چیز۔ دو گنا۔ علم جزا کا ایک قاعدہ جس میں حروف کا دو گن کر کے جوابات نکالتے ہیں۔

ضعیف۔ (ع۔ ا۔ مذ) کمزوری۔ بے عقل۔ بے ہوشی۔ سستی۔ ناتوانی۔

ضعیف باہ۔ (ع۔ ا۔ مٹ) سستی۔ کمزوری۔ نامردی۔

ضعیف بصارت۔ (ع۔ ا۔ مٹ) آنکھوں کی ناطقتی۔ نظر لاکم ہونا۔

ضعیف جگر۔ (ع۔ ا۔ مذ) کیلے کی ناطقتی۔ ایک بیماری۔

ضعیف دل (قلب)۔ (ع۔ ا۔ مذ) دل کی کمزوری۔

ضعیف دماغ۔ (ع۔ ا۔ مذ) دماغ کی کمزوری۔ تھوڑے سے کام سے دماغ کا تھک جانا۔

ضعیف مشانہ۔ (ع۔ ا۔ مذ) مشانہ کی کمزوری جس میں بار بار پیشاب آتا ہے۔

ضعیف معدہ۔ (ع۔ ا۔ مذ) معدہ کی کمزوری۔ پیٹ کا ایک مرض۔

ضعیفاد۔ (ض۔ ع۔ ف) (ع۔ ا۔ مذ) ضعیف کی جمع۔ کمزور لوگ۔

ضعیف۔ (ض۔ یف) (ع۔ صفت) ناطقت۔ کمزور۔ بوڑھا۔

ضعیف الاعتقاد۔ وہ شخص جس کے اعتقاد میں گرم ہوشی نہ ہو۔ بھولا۔

سادہ۔ کمزور اعتقاد کا۔

ضعیف الایمان۔ (ع۔ ا۔ مذ) کمزور ایمان والا۔ مذہبی باتوں پر یقین نہ کرنے والا۔

ضعیف البیان۔ (ع۔ ف۔ ا۔ صفت) جس کی بنیاد کمزور ہو۔ عموماً انسان کے ساتھ بولا جاتا ہے۔

ضعیف العقل۔ (ع۔ صفت) کم عقل۔ بے وقوف۔

ضعیف حال۔ (ع۔ صفت) خراب۔ مصیبت زدہ۔

ضعیفہ۔ (ض۔ یح) (ع۔ ا۔ مٹ) بوڑھی عورت۔ کمزور عورت۔

ضعیفی۔ (ض۔ یح) (ع۔ ا۔ مٹ) بوڑھا۔ پیری۔ کمزوری۔

ض۔ ع۔

ضبط۔ (ض۔ ط) (ع۔ ا۔ مذ) (۱) داؤ (۲) پھیلکا (۳) پھینکا۔ ضبط۔ (ض۔ ط) (ع۔ ا۔ مذ) سستی۔ رنج۔ تنگی۔ کشمکش۔ سختی۔

ضمن - (ع۔ ا۔ مذ) (۱) ذیل۔ اندر (۲) شرکت۔ شمول (۳) تاقون۔ دفعہ۔ فقرہ۔
 مضمون۔ فصل (۴) تعلق۔

مضمون میں ہونا۔ (ا۔ محاورہ) حق میں ہونا۔ شامل ہونا۔
 مضمناً۔ (مضمون) (ع۔ تابع فعل) (۱) بشمول (۲) اشارۃً کنایتاً۔
 مضمینی۔ (مضم) (بی) (ا۔ مٹ) [مقدم کی تقیتش کی روزانہ رپورٹ جو پولیس
 افسر بھیجے۔

مضمہ۔ (مضم) (ع۔ ا۔ مذ) ضم۔ پیش۔ پیش کی حرکت۔
 ضمیر۔ (ض) (بیر) (ع۔ ا۔ مذ) (۱) دل۔ قلب (۲) بھید۔ راز۔ پوشیدہ (۳)
 خیال۔ اندیشہ (۴) (مٹ) قواعد صرف و نحو میں وہ مختصر اسم جس سے

اسم غائب یا حاضر یا متکلم سمجھا جائے۔
 ضمیمہ۔ (ض۔ بی۔ مہ) (ع۔ ا۔ مذ) وہ شے جو کسی اور شے پر بڑھا کر لگائیں۔
 تکلمہ۔ پرچہ زائد۔ اخبار کی معمول سے الگ اشاعت۔

ض۔ و۔

ضو۔ (ع۔ ا۔ مٹ) (۱) روشنی۔ پرتو۔ نور۔ چمک۔
 ضو افتال۔ (ع۔ ف۔ مٹ) روشنی۔ ستور۔ روشنی دینے والا۔
 ضوریز۔ ضونفک۔ (ع۔ ف۔ مٹ) (ع۔ مٹ) روشنی پھینکنے والا۔

ض۔ ی۔

ضیا۔ (ض۔ یا) (ع۔ ا۔ مٹ) (۱) روشنی پھلک (۲) رونق۔ زہرو
 ضیا افروز۔ ضیا بار۔ ضیا پاش۔ ضیا فثال۔ ضیا گستر۔ (ع۔ ف۔

مٹ) روشنی کرنے والا۔ روشنی پھیلانے والا۔
 ضیا باری۔ ضیا پاشی۔ ضیا فثانی۔ ضیا گستری۔ (ع۔ ف۔ ا۔ مٹ)
 روشنی پھیلانا۔

ضیافت۔ (ض۔ یا۔ ف۔ مٹ) (ع۔ ا۔ مٹ) (۱) دعوت۔ کھانا کھلانا۔
 ضیافت خانہ۔ (ع۔ ف۔ مٹ) (۱) مہمان خانہ۔ مہمان داری کا مکان۔

ضیافت کرنا۔ (مض۔ مرکب) مہمانی کرنا۔ دعوت کرنا۔
 ضیعف۔ (ض۔ ی۔ مٹ) (ع۔ ا۔ مذ) (۱) چھوٹے والا۔ شیر۔ شیر بھر۔

ضیف۔ (ع۔ ا۔ مذ) مہمان۔
 ضیق۔ (ع۔ ا۔ مٹ) (۱) تنگی (۲) دقت۔ دشواری (۳) مکان کی تنگی۔

ضیق النفس۔ (ع۔ ا۔ مذ) دماغ۔ سانس کا روگ۔ دم کا ٹھنڈا۔
 ضیق میں آنا (ہونا)۔ (ا۔ محاورہ) تنگ جہنا۔ عاجز آنا۔ مشکل میں پھنسا۔

ضیق میں جان ہونا۔ (ا۔ محاورہ) سخت پریشان ہونا۔

ط

”ط“ (طو۔ اے) اُردو کا بابشواں، فارسی کا بیسواں اور عربی کا سولہواں حرف (۲) حساب الجبر میں اس کے فوعد و قدر ہیں۔ یہ شمسی حرف ہے۔ اس کے پہلے ”ال“ آجائے تو لام پڑھا نہیں جائے گا۔ ”ط“ مشدّد پڑھا جائے گا جیسے الظاہر۔ علم نجوم میں بروج سرطان کی علامت ہے۔

ط ا

طاب - (رع۔ صفت) (۱) خوشبودار (۲) خوش گوار۔ نفیس (۳) پاک۔
طاب تراءُ - (رع۔ مکرّم) اس کی قبر خوشبودار ہو۔ یعنی اس کی روح کو سکون نصیب ہو۔

طابح - (طا۔ بئج) (رع۔ ا۔ مذ) (۱) چھاپنے والا۔ پرنٹر۔
طابعہ - (طا۔ ب۔ عد) (رع۔ ا۔ ممت) (۱) قلمب و قلمب۔ ٹائپ مشین۔
طابق - (طا۔ بئق) (رع۔ ا۔ مذ) (۱) مطابقت رکھنے والا (۲) تابع (۳) تراویحی (۴) پروردگار کے والا (۵) مکان کی منزل۔

طابق التعلل بالتعلل - (رع۔ مثل) اُجرتی جوتی کے ساتھ مطابقت ہو گئی۔ دو آدمی یا چیزیں ایک دوسرے سے عین مطابقت ہو جائیں تو یہ مثل ہوتے ہیں۔
طابق - (رع۔ ا۔ مذ) (۱) بیچ کا تارہ (۲) رات کو چلنے والا (۳) سخت حادثہ۔
طارم - (رع۔ ا۔ مذ) (۱) کوڑی کا گھر (۲) گنبد (۳) بلند مکان (مجازاً) آسمان۔

طارم اعلیٰ - (رع۔ ا۔ مذ) فلک الافلاک۔
طارم انخضر - (۱) ہری چھت (۲) آسمان۔
طاری - (رع۔ صفت) (۱) ناگمان ظاہر ہونے والا (۲) چھا جانے والا۔ غالب آنے والا۔

طاری ہونا - (مسن۔ مرتب) چھا جانا۔ غلبہ پانا۔
طاس - (رع۔ ا۔ مذ) (۱) بڑا پشت۔ مثال۔ لیکن (۲) پیالہ (۳) ایک قسم کا دریشمی کپڑا (۴) وہ علاقہ جس سے دریا گزرتا ہو۔ بیسن (۵) ایک پرندہ (ق) -
طاس بازی - (رع۔ ف۔ ا۔ ممت) (۱) شہیدہ بازی۔ مکاری۔
طاس دریا - (رع۔ ف۔ ا۔ مذ) دکانہ۔ ڈیلٹا۔ بیسن۔

طاسہ - (رع۔ ا۔ مذ) ڈھول۔ تاسہ۔ تاشہ۔
طاسہ نواز - (رع۔ ف۔ صفت) تاشہ بجانے والا۔
طاعت - (رع۔ ا۔ ممت) (۱) طاعت کی جمع۔ اطاعت کے کام۔
طاعت - (رع۔ ا۔ ممت) ہندگی۔ عبادت۔ بوجا۔ فرمان برداری۔ جمع طاعات۔
طاعت گاہ - (ف۔ ا۔ ممت) عبادت کی جگہ۔ مسجد۔

طاعت گزار - (رع۔ ف۔ ا۔ صفت) فرمان بردار۔ بندگی کرنے والا۔ عبادت گزار۔
طاعن - (رع۔ صفت) (۱) طعن زن۔ طعنہ دینے والا (۲) نیزہ مارنے والا۔
طاعون - (طا۔ عون) (رع۔ ا۔ مذ) ایک مہلک اور متعدی وبا جس میں چھاتی، بھل یا نیسے کے نیچے گلٹیاں نکلتی ہیں اہدیشہ مکار ہوتا ہے۔ چینگ۔

طاعت - (طا۔ عوت) (رع۔ ا۔ مذ) (۱) شیطان۔ گناہوں کا سردار (۲) بہت۔
طاعت - (رع۔ صفت) خدا کے سوا کسی اور کی پرستش کرنے والا۔
طاعتی - (طا۔ عوتی) (رع۔ صفت) طاعت سے نسبت رکھنے والا۔ شیطانی۔
طاعتی - (رع۔ صفت) (۱) سرکش۔ باغی۔ مانگ کا نافرمان (۲) حد سے گزرنے والا (۳) فساد پھیلانے والا۔

طابق - (رع۔ ا۔ مذ) (۱) محراب۔ محراب دار ڈاٹ جو دیوار میں بنا دیتے ہیں۔
طابق - (رع۔ ا۔ مذ) (۱) لاشائی۔ ماہر (۲) ایک درخت کا نام (۳) ایک کپڑے کا نام (۴) وہ عدد جو جمع نہ ہو مثلاً ۱۔ ۳۔ ۵ وغیرہ۔
طابق ابرو - (رع۔ ا۔ مذ) ابرو کا طاق۔ بھون کی کمان۔
طاق ارنق - (رع۔ ف۔ ا۔ مذ) نیلا طاق۔ آسمان۔

طاق ایران - (رع۔ ا۔ مذ) ڈیلوٹھی۔ جلوہ خانہ۔
طاق بھرنا - (۱) محاورہ) مسجد یا مزار کے طاق میں چراغ جلا کر چول بنانے وغیرہ پڑھانا وغیرہ۔
طاق پر بیٹھا الو - بھر بھر مانگے چلوتے۔ (۱) مثل) اس کیلئے شخص کے متعلق کہتے ہیں جو اپنے سے بہتر آدمیوں پر حکم چلائے۔

طاق پر (دھرتا) رکھنا - (۱) محاورہ) چھوڑ دینا۔ ترک کرنا۔ باز آنا۔ اٹھا رکھنا۔
طاق پر رکھا رہنا - (۱) محاورہ) صنایع کرنا۔ کام نہ آنا۔ بے کار اور نچا رہنا۔
طاق کرنا - (۱) محاورہ) بیکٹ کرنا۔ بیگانہ کرنا۔ ماہر کرنا۔

طاق میں ایمان رہنا - (۱) محاورہ) ایمان داری کے تقاضوں کو پورا نہ کرنا بے ایمانی کرنا۔
طاق نسیاں ہونا - (۱) محاورہ) چھوٹ جانا۔ بھلا دیا جانا۔
طاق و بخت - (رع۔ ف۔ ا۔ مذ) ایک قسم کا بوجا جس میں ہاتھ میں کوئی چیز چھپا کر دریافت کرتے ہیں کہ اس میں طاق ہے یا بخت۔

طاق و بخت دونوں ہونا - (۱) محاورہ) ہر حالت میں کامیابی ہونا۔
طاق ہونا - (۱) محاورہ) (۱) ماہر ہونا کیلئے ہونا (۲) جانا رہنا۔ زائل ہونا۔
طاقہ - (رع۔ ف۔ ا۔ مذ) چھوٹا طاق۔

طاققت - (طا۔ ققت) (رع۔ ا۔ ممت) (۱) زور۔ بیل۔ قوت (۲) تاب۔ مجال۔ جرات۔ حوصلہ (۳) قابلیت۔ لیاقت۔ محدود (۴) برداشت۔ بساط۔ سائی (۵) سلطنت۔ حکومت۔
طاققت آڑما - (رع۔ ف۔ ا۔ مذ) زور دکھانے والا۔ قوت لگانے والا۔

طاققت آزمائی - (ف۔ ا۔ ممت) زور دکھانا۔ زور لگانا۔
طاققتیں - (ف۔ ا۔ ممت) حکومتیں۔ سلطنتیں۔
طاققت سلب ہونا - (مسن۔ مرتب) قوت جاتی رہنا۔

طاقت طاق ہونا۔ (۱۔ محاورہ) بالکل طاقت نہ رہنا۔ قوت کا زائل ہوجانا۔
 طاقت کا جواب دینا۔ (۱۔ محاورہ) طاقت نہ رہنا۔ کمزور ہوجانا۔
 طاقت کرنا۔ (۱۔ محاورہ) زور دکھانا۔ زور کرنا۔ قوت آزمانا۔
 طاقت ہمال نداشت خانہ ہمال گواشت۔ (ف۔ مٹ) ہمال ہمان داری
 کی طاقت نہ رکھتا تھا گھر ہمال کے لیے چھوڑ گیا اس وقت کہتے ہیں جب
 کوئی ہمال کے آنے پر مل جائے۔
 طاقت ور۔ (ع۔ ف۔ ص) زور آور۔ توانا۔ مضبوط۔ کس بل والا۔
 طاقتہ۔ (ط۔ ق۔ ز) (ع۔ ا۔ مذ) (۱) ادنیٰ یا ریشمی کپڑے کا تھان۔
 طاقتی۔ (ط۔ ق۔ ز) (ف۔ مٹ) وہ گھوڑا جس کی ایک آنکھ چھوٹی اور ایک بڑی
 ہو بھینگا۔ اسے محسوس سمجھا جاتا ہے۔
 طاقتہ۔ (ع۔ ا۔ مٹ) وہ ٹوٹی جو پرگڑی کے نیچے پہنتے ہیں۔
 طاقتی رکھے نہ باقی۔ (۱۳۔ مٹ) بھینگا محسوس ہوتا ہے۔
 طال۔ (ع۔ ماضی) لیا ہوا۔ بڑھ گیا۔
 طال (اعتد) عمرگہ۔ (ع۔ د) اس کی عمر لمبی ہو۔
 طالب۔ (ط۔ ب) (ع۔ ص) (۱) مانگنے والا۔ ڈھونڈنے والا۔ چاہنے والا
 مشتاق۔ خواست گار۔ امیدوار۔
 طالب استمداد یا امداد۔ (ع۔ ص) مدد چاہنے والا۔ امداد کا طلب گار۔
 طالب امان ہونا۔ (۱۔ محاورہ) پناہ چاہنا۔ جان بخشی چاہنا۔
 طالب جنگ ہونا۔ (۱۔ محاورہ) دشمن کو لڑائی کی دعوت دینا۔
 طالب دنیا۔ (ع۔ ف۔ ص) دنیا طلب کرنے والا۔ حریص۔ لالچی۔
 طالب دیدار۔ (ع۔ ف۔ ص) عاشق۔ مشتاق نگارہ۔ محبوب کو دیکھنے
 کا خواہش مند۔
 طالب زر۔ (ع۔ ف۔ ص) مال دوزر چاہنے والا۔ حریص۔ لالچی۔
 طالب عتقی۔ (ع۔ ا۔ مذ) آخرت کا طلب گار۔ دین دار۔ پارسا۔ زاہد۔
 طالب علم۔ (ع۔ ا۔ مذ) (۱) علم کا طلب گار۔ مدرسہ میں پڑھنے والا۔ علم
 حاصل کرنے والا۔ مستقیم (۲) جنتی۔ ذرا سوز۔
 طالب علمانہ۔ (ع۔ ا۔ ص) طالب علموں کی مانند۔ شاگردوں کی طرح۔
 طالب علمی۔ (ع۔ ف۔ مٹ) علم پڑھنے یا کام سیکھنے کا شغل۔ شاگردی۔
 طالب کعبن (مرگ) ہونا۔ (۱۔ محاورہ) مرنے کا خواہش مند ہونا۔
 طالب و مطلوب۔ (ع۔ ا۔ مذ) عاشق و معشوق۔
 طالبہ۔ (ط۔ ل۔ ب) (ع۔ ا۔ مٹ) (۱) طلب کرنے والی (۲) علم حاصل کرنے
 والی عورت۔ بستکہ۔
 طالع۔ (ط۔ ل۔ ع۔ ص) بدکار۔ بُرا آدمی۔ شریر۔
 طالع۔ (ط۔ ل۔ ع۔ ص) (۱) طلوع ہونے والا۔ چمکنے والا (۲) (۱۳۔ مذ) نصیب
 قسمت۔ اقبال (۳) نیا چاند۔
 طالع آزما۔ (ع۔ ف۔ ص) نصیب آزمانے والا۔ ابن الوقت۔
 طالع آزمائی۔ (ع۔ ف۔ مٹ) قسمت آزمائی۔ نصیب آزمانا۔
 طالع اورج پر ہونا۔ (۱۔ محاورہ) نصیباً بلند ہونا۔ بختا ور ہونا۔ صاحب
 نصیب ہونا۔ بلند قسمت ہونا۔
 طالع بیدار۔ (ع۔ ف۔ ا۔ مذ) خوش نصیبی۔ اقبال مندی (۲)

دکنائے معشوق۔
 طالع جاگنا۔ (۱۔ محاورہ) اچھے دن آنا۔ قسمت جاگنا۔
 طالع سونا۔ (۱۔ محاورہ) بڑے دن ہونا۔ بد بختی آنا۔
 طالع چمکنا۔ (۱۔ محاورہ) قسمت کھلنا۔ نصیب جاگنا۔
 طالع خوابیدہ۔ (ع۔ ف۔ ا۔ ص) بخت تھکتی۔ سویا ہوا نصیب۔ بد قسمتی۔
 طالع شناس۔ (ع۔ ف۔ ص) بخوبی۔ جوتشی۔ قسمت کا حال بتانے والا۔
 طالع شناسی۔ (ع۔ ف۔ ا۔ ص) نجوم کا علم۔
 طالع کا گھر۔ (۱۔ مذ) بارہ برجوں میں سے کوئی برج۔
 طالع کی رسائی (یا واری)۔ (ع۔ ا۔ مٹ) خوش قسمتی۔ قسمت کی یادری۔
 طالع مند۔ طالع ور۔ (ع۔ ف۔ ص) نصیب والا۔ خوش قسمت۔ بختا ور۔
 طالع وری۔ (ع۔ ف۔ مٹ) خوش قسمتی۔ خوش نصیبی۔
 طالع ہونا۔ (ع۔ مٹ) برکت۔ پرمٹنا۔ چمکنا۔
 طالع یا اور ہونا۔ (۱۔ محاورہ) قسمت جاگنا۔ نصیب کھلنا۔
 طالعہ۔ (ط۔ ل۔ مٹ) (ع۔ ا۔ مٹ) (۱) روشنی (۲) طلوع کرنے والی۔
 طاقت۔ (ط۔ ل۔ مٹ) (ع۔ ا۔ مذ) یعنی اسرائیل کا بادشاہ جس نے جاؤت
 سے جنگ کر کے اسے قتل کیا۔
 طامات۔ (ط۔ م۔ مات) (ع۔ ا۔ مذ۔ مٹ) (۱) گپ بازی۔ شیخی خوری (۲)
 ریا کاروں کی مبالغہ آمیزی۔
 طامع۔ (ط۔ م۔ ح) (ع۔ ص) حریص۔ لالچی۔ لوجی۔ طمع کرنے والا۔
 طاہر۔ (ط۔ ہر) (ع۔ ص) پاک۔ صاف۔ مقدس۔
 طاہرہ۔ (ط۔ ہر) (ع۔ ص) پاک با عورت۔ جمع، طاہرات۔
 طاہری۔ (ط۔ ہر) (ع۔ ا۔ مذ) بڑی پلاؤ۔ ایک قسم کا کھانا جو چادوں
 اور بڑیوں سے پکایا جاتا ہے۔
 طاٹر۔ (ط۔ ہر) (ع۔ ص) (۱) اُڑنے والا پرند پھیرو۔
 طاٹر بسمل۔ (ع۔ ف۔ ا۔ ص) آدھا ذبح کیا ہوا پرندہ۔ نیم جان پھیرو۔
 طاٹر خوش نوا۔ (ع۔ ف۔ ا۔ ص) خوش الحان پرندہ۔ اچھا گانے والا پھیرو۔
 طاٹر خیال۔ (ع۔ ف۔ مذ) خیال کو طائر سے تشبیہ دیتے ہیں۔
 طاٹر روح۔ (ع۔ ا۔ مٹ) روح کا طائر سے استعارہ کرتے ہیں۔
 طاٹر زریں بال۔ (ع۔ ا۔ مذ) سبزے پر دل والا پرندہ (۲)
 (مجازاً) آفتاب۔
 طاٹر سردہ۔ (ع۔ ا۔ مذ) حضرت جبریل علیہ السلام جن کا مقام
 سدہ پر ہے۔
 طاٹر قبلہ نما۔ (ع۔ ف۔ ا۔ مذ) مُرخ قبلہ نما۔ وہ مقنا طیبی سوئی جس سے
 قبلہ کا رخ معلوم ہوتا ہے۔
 طاٹر مٹھل اُڑ جانا۔ (۱۔ محاورہ) ہوش و حواس جاتے رہنا۔
 طاٹر قدس یا قدسی۔ (ع۔ ف۔ مذ) (۱) پاک جان کا پرندہ (۲) فرشتہ جبرائیل۔
 طاٹر نوگر فتار۔ (ع۔ ف۔ ا۔ مذ) وہ پرندہ جو چھوڑے موسم سے قید ہوا ہو
 (مجازاً) وہ شخص جو تازہ تازہ عشق میں مبتلا ہوا ہو۔
 طاٹر نیم بسمل کی طرح پھرنے والا۔ (۱۔ محاورہ) آدمی سے ذبح کیے ہوئے پرند کی
 طرح تڑپنا۔ نہایت بے قرار ہونا۔

طائر وحشی (ح۔ ت۔ صفت) جنگلی پرندہ۔ وہ پرندہ جو بالقرنہ ہو۔

طائر و دم و خیال کا شہ پختا۔ (ا۔ محاورہ) کسی بات کا نام لکھن ہونا۔ خیال نیک رہنا۔

طائر ارنہ۔ (ط۔ ا۔ و۔ ل۔ ن۔) (ح۔ صفت) پرندے کی طرح (۲) سرسری چھپتی۔

طائر نہ نگاہ ڈالنا۔ (ا۔ محاورہ) اچھٹی نگاہ ڈالنا۔ سرسری طور پر دیکھنا۔

طائف۔ (ط۔ ا۔ ت۔) (ح۔ صفت) (۱) طواف کرنے والا۔ پکڑ کاٹنے والا۔ اردگرد پھرنے والا (۲) جاز کا ایک قسم۔

طائفہ۔ (ط۔ ا۔) (ذ۔ ح۔ ا۔) (ح۔ صفت) (۱) طواف کرنے والی (۲) قوم۔ ذات۔ ملت (۳) منڈلی۔ گردہ۔ جگتہ۔ فرقہ۔ جماعت (۴) رندگی اور اس کے ساتھی۔

ناچنے والوں کی ٹولی (۵) قافلہ۔

طائفہ نجانا۔ (مص۔ مرکب) رندگی یا جھانڈوں کا تاج کرنا۔

طائیل۔ (ط۔ ا۔ ایل۔) (ح۔ ا۔) (ذ۔ ا۔) (فاہمہ۔) (نفع۔) (۲) افزونی (۳) تواضعی (۴) بے قید۔ اردو میں لاٹال کی ترکیب کے ساتھ مستعمل ہے۔

طاؤس۔ (ط۔ ا۔ اوس۔) (ح۔ ا۔) (ذ۔ ا۔) (۱) مور (۲) ایک ساز جو مور کی شکل کا بنا ہوتا ہے اور سارنگی کی طرح بجا یا جاتا ہے۔

طاؤس کولنا۔ (ا۔ محاورہ) مور کا چلانا۔ مور کا بولنا۔

طاؤس کی مستی۔ (ا۔) (ح۔ صفت) تھوڑی دیر رہنے والی چیز۔

طاؤسی۔ (ط۔ ا۔ اوس۔) (ح۔ صفت) مور کا۔ مور کے رنگ کا۔

طاؤسی رقص۔ (ح۔ ا۔) (ح۔ صفت) ایک خاص قسم کا تاج جو مور کے رقص سے

مشابہ ہوتا ہے۔

طانی۔ (ط۔ ا۔ ا۔) (ح۔ صفت) عرب کے قبیلہ "ط" سے منسوب ہیں تمام براسی گزرا ہے

ط۔ ب

طب۔ (ح۔ ا۔) (ح۔ صفت) (۱) علم۔ علاج۔ معالجہ۔ علم خاص کو پونانی طریقہ علاج

طبابت۔ (ط۔ ب۔ اب۔ ت۔) (ح۔ ا۔) (ح۔ صفت) (۱) معالجہ۔ معالجہ۔ ڈاکٹری حکمت کرنا۔

علاج کرنا۔

طبایح۔ (ط۔ ب۔ با۔ ح۔) (ح۔ ا۔) (ذ۔) (۱) باورچی۔ خانہ سامان۔ کھانا پکانے والا۔

طبائی۔ (ح۔ ا۔) (ح۔ صفت) (۱) کھانا پکانے کا کام۔

طبائشیر۔ (ط۔ ب۔ ایشیر۔) (ح۔ ا۔) (ح۔ صفت) (۱) سنبھلجن۔ ایک سفید رنگ کی دوائی۔

جو پائش کی گائیوں سے نکلتی ہے۔

طباطبائی۔ (ط۔ ب۔ ا۔ ط۔) (ح۔ ا۔) (ح۔ صفت) حضرت اسماعیل بن ابراہیم

بن امام حسن کی اولاد جن کا لقب طباطبائی تھا۔ عید کے موقع پر جب ان کے والد

نے لباس کے متعلق پوچھا کیا چاہئے تو انہوں نے قبا قبا کی بجائے طباطبائی کہا۔

طبایح۔ (ط۔ ب۔ ا۔ ح۔) (ح۔ صفت) (۱) غیر معمولی ذہین۔ تیز طبیعت (۲) تلوار

بنانے والا۔ ڈھیلا (۳) کوڑھ گرگہبار۔ ساچنے میں ڈھالنے والا۔

طباعت۔ (ط۔ ب۔ ا۔ ع۔ ت۔) (ح۔ ا۔) (ح۔ صفت) (۱) پرٹنگ پھیپائی (۲) تلوار

بنانے یا کھار کا فن۔

طبائی۔ (ط۔ ب۔ ا۔ ح۔) (ح۔ صفت) (۱) غیر معمولی ذہانت۔ طبیعت کی تیزی۔

طباق۔ (ط۔ ب۔ ا۔ ق۔) (ح۔ ا۔) (ذ۔) (۱) بڑی رگابی۔ تھالی (۲) کاسٹر مسر۔

طباق سامنہ۔ (ا۔) (ذ۔) (۱) پورٹا سامنہ۔ پورا پچلا چہرہ۔ چپٹا چہرہ۔

طباقی۔ (ط۔ ب۔ ا۔ ق۔) (ح۔ صفت) طباق سا۔

طباقی گتہ۔ (ذ۔) (ح۔ صفت) خورا۔ عینیل۔ دو سرول کی روٹیاں توڑنے والا۔

طبایع۔ (ط۔ ب۔ ا۔ ح۔) (ح۔ ا۔) (ذ۔) (ح۔ صفت) طبیعت کی جمع۔ طبیعتیں۔

طبیع۔ (ح۔ ا۔) (ح۔ صفت) (۱) طبیعت۔ فطرت۔ مزاج۔ سرشت۔ بصلت (۲) چھاپنا

نشان لگانا (۳) سکتہ۔ نقش۔ ٹہر۔ چھاپ۔

طبیع آزمائی۔ (ح۔ ا۔) (ح۔ صفت) طبیعت کی آزمائش۔ ذہانت کا امتحان۔

طبیع رسا (روال)۔ (ح۔ ا۔) (ح۔ صفت) تیز طبیعت۔ تیز ذہن۔

طبیع زاد۔ (ح۔ ا۔) (ح۔ صفت) (۱) اپنی ایجاد یا اختراع۔ طبیعت سے نکلا ہوا۔

طبیع کرنا۔ (مص۔ مرکب) چھاپنا۔ شائع کرنا۔

طبیع گرامی۔ (ح۔ ا۔) (ح۔ صفت) (۱) کسی بزرگ کی طبیعت یا مزاج پر چلتے

وقت استعمال ہوتا ہے۔ بزرگ طبیعت۔

طبیع موزوں۔ (ح۔ ا۔) (ح۔ صفت) (۱) شاعر سے مناسبت رکھنے والی طبیعت۔

طبعی۔ (ط۔ ب۔ ا۔ ح۔) (ح۔ صفت) (۱) طبیعت سے منسوب۔

(۲) ذاتی۔ نظری۔ اصلی۔ قدرتی۔ خلقی۔ ب کے سکون کے ساتھ طبع سے منسوب۔

طبعی جغرافیہ۔ (ح۔ ا۔) (ح۔ صفت) وہ جغرافیہ جس میں خشکی و تری کی بحث ہو۔

طبق۔ (ط۔ ب۔ ا۔ ح۔) (ذ۔) (۱) خال۔ بڑی رگابی (۲) طبقہ۔ تختہ (۳) تہ۔

چھلکا (۴) نیاز (۵) سونے کا ورق۔ پتہ (۶) موافق۔ مطابق (۷) خطہ۔

نک۔ تختہ (۸) پروں کی نیاز کا کوٹھا (۹) عمر۔ زمانہ۔ بیس برس کا

عرصہ (۱۰) ڈھکنا۔ قرض۔ ٹکیر (۱۱) عورت کی شرم گاہ (۱۲) چھٹی (۱۳)

حالت درجہ۔ منزل (۱۴) گھوڑوں کی ایک بیماری۔

طبق اٹھ جانا۔ (ا۔ محاورہ) کسی خاندان میں زوال آجانا کسی ملک کا

ترد بالا ہو جانا۔ برباد ہو جانا۔

طبق باز۔ طبق زن۔ (ح۔ ا۔) (ح۔ صفت) چھٹی کھیننے والی عورت۔

طبق چھوڑنا۔ (ا۔ محاورہ) عورتوں کا پروں کی نیاز دے کہ خال میں چھول

پوراغ وغیرہ رکھ کر دریا میں ڈالنا۔ صنگ دینا۔

طبقات۔ (ط۔ ب۔ ا۔ ت۔) (ح۔ ا۔) (ذ۔) طبقہ کی جمع۔ طبقے۔

طبقات الارض۔ (ح۔ ا۔) (ذ۔) زمین کے طبقے۔ زمیں کی تہیں۔

طبقتہ۔ (ط۔ ب۔ ا۔ ح۔) (ح۔ ا۔) (ذ۔) (۱) طبق کی تصغیر۔ خاکہ (۲) چھوٹی رگابی۔

طبقتہ۔ (ط۔ ب۔ ا۔ ح۔) (ح۔ ا۔) (ذ۔) (۱) منزل۔ درجہ (۲) تہ۔ پرت (۳) روک۔

پرندہ (۴) آدمیوں کا گردہ (۵) باہر۔ رقبہ۔ جمع؛ طبقات۔

طبقتہ اڑا دینا۔ (ا۔ محاورہ) سربنگ میں بارود رکھ کر دھماکا دیکھا کے زمین

کا ٹکڑا اڑا دینا۔

طبقتہ اٹھ جانا۔ (ا۔ محاورہ) (۱) حالت بدل جانا (۲) کسی خاندان یا ملک

میں زوال آجانا (۳) کسی معاملے کا بگڑ جانا۔

طبقتہ بالا۔ اوپر کی منزل۔

طبقتائی۔ (ط۔ ب۔ ا۔ ح۔) (ح۔ صفت) (۱) طبقتہ یا جماعت سے متعلق۔

طبقتائی جنگ۔ وہ کشمکش یا لڑائی جو مباشرت سے مختلف طبقتوں میں ہو۔

طبل۔ (ح۔ ا۔) (ذ۔) بڑا ڈھول۔ دمار۔ نقار۔ ڈھولہ۔

طبل آسائش - (ع-ف-ا-ذ) فوجوں کی داپسی کا طبل۔
 طبل بازگشت - (ع-ف-ا-ذ) لڑائی ہوئی فوجوں کو واپس بلانے کا نغمہ۔
 طبل پرچوٹ پڑنا - (ع-م-ا-م) نغمہ جینا (۲) اعلان جنگ ہونا۔
 طبل جنگ - (ع-ف-ا-ذ) حرب یا نرم - لڑائی کے وقت کا نغمہ۔
 طبل کوچاشنی دینا - (ع-م-ا-م) نغمہ بجانا۔
 طبل نوازی - (ع-ف-ا-م) نغمہ بجانا۔
 طبلچی - (ط-ب-ل-جی) (ا-ر-ا-ا) مذ [طبلیا - طبلہ بجانے والا۔
 طبلتق - (ع-ب-ق) (ع-ا-م) [(ا) کاغذوں کا بندل (۲) کاغذی بندھن۔
 وہ کاغذ جو کاغذوں کے ٹٹھے یا اخبارات پر ان کو بند کرنے کے لیے لٹکایا جاتا ہے (۳) دوڑنے سے کھلا ہوا نغمہ۔
 طبلک - (ع-ب-ک) (ف-ا-م) [چھوٹا ڈھول۔
 طبلہ - (ع-ب-ل) (ع-ا-ذ) [(ا) چھوٹا ڈرم - ڈبہ - مندر قچی (۲) ڈھولک (۳) ایک خاص قسم کا ایک رُخا بجا۔
 طبلہ بجانا - (م-س-ک) (ع-ب-ط) طبلہ ٹھکانا - طبلہ کھڑکنا۔
 طبلہ خوار - (ع-ف-ا-ذ) [مذ [مُت خوار - طبل۔
 طبلہ عطار - (ع-ا-ذ) [مذ [عطار کے مندر قچی جس میں وہ عطر وغیرہ رکھتے ہیں۔
 طبلہ عطار بننا دینا - (ع-م-ا-م) عطار کر دینا - بے حد خوشبو پیدا کر دینا۔
 طبلہ نواز - (ع-ف-ا-م) [صفت [طبلیا - طبلہ بجانے والا۔
 طبلے پر چھاپ (تھاپ) پڑنا - (ع-م-ا-م) طبلہ بجانا۔
 طبلی - (ع-ب-لی) (ف-ا-م) [مذ [وہ قبیلہ جس میں ہندوؤں کا سامان رکھتے ہیں۔
 طبتی - (ع-ب-لی) (ع-ص-ف) [طب کا - یونانی اور ڈاکٹری علاج معالجہ سے متعلق۔
 طبتی مدرسہ - (ع-ا-ذ) وہ مدرسہ جہاں طب کی تعلیم دی جاتی ہے۔
 طیب - (ط-ب-ب) (ع-ا-ذ) [ڈاکٹر - حکیم - معالج - علاج کرنے والا۔
 طیب حادثی - (ع-ا-ذ) [مذ [تجربہ کار ڈاکٹر یا حکیم۔
 طیب روحانی - (ع-ا-ذ) [مذ [روح کے بیماریوں کا علاج کرنے والا بزرگ آدمی رُشد و ہدایت دینے والا - مُرشد۔
 طیبعت - (ط-ب-لی) (ع-م-ت) (ع-ا-م) [(ا) مزاج - فطرت - طینت - برشت (۲) خصلت - عادت - سبھاؤ (۳) خلقت - پیدائش۔
 طیبعت آنا - (ع-م-ا-م) (ع-ا-ب) کسی سے محبت ہو جانا کسی پر عاشق ہونا (۳) طیبعت کا یا جنب یا نائل ہونا (۳) کوئی چیز پسند آنا کسی شے کا دل کو جانا۔
 طیبعت اٹھل پھیل ہونا - (ع-م-ا-م) طیبعت بے قرار ہونا۔
 طیبعت اُچھاٹ ہونا - طیبعت اُٹھنا - (ع-م-ا-م) دل بیزار ہونا - ہی اگتانا طیبعت اعتدال پر آنا - (ع-م-ا-م) مزاج درست ہونا - مزاج کا صحیح حالت اختیار کرنا۔
 طیبعت اک سو (کیسو) ہونا - (ع-م-ا-م) ملین ہونا۔
 طیبعت اُگھڑنا - (ع-م-ا-م) برداشتہ خاطر ہونا - ہی کا بیزار ہونا۔
 طیبعت اُلٹ جانا - (ع-م-ا-م) مزاج بدل جانا (۲) متلی ہونا - طیبعت قراب ہونا۔

طیبعت اُلجھنا - (ع-م-ا-م) دل گھبرانا - ہی پریشان ہونا - ناگوار خاطر ہونا۔
 طیبعت باغ باغ ہونا - طیبعت باغ و بہار ہونا - (ع-م-ا-م) بہت خوش ہونا۔
 طیبعت بحال ہونا - (ع-م-ا-م) طیبعت کا درست ہونا (۲) صحت ہونا۔
 افتاقہ ہونا - آرام ہونا (۳) مزاج کا خوش ہونا۔
 طیبعت بدلنا - (ع-م-ا-م) مزاج کا بدلنا۔
 طیبعت بڑھنا - (ع-م-ا-م) عمارت پر کسی کام کی مشق سے عمارت پیدا ہونا۔
 طیبعت بگڑنا - (ع-م-ا-م) (ع-م-ا-م) حالت خراب ہونا - بیمار ہونا (۲) ہی متلانا۔
 متلی ہونا (۳) ناراض ہونا - دل خفا ہونا۔
 طیبعت بھڑ بھڑانا - (ع-م-ا-م) دلولہ پیدا ہونا - طیبعت گدگدانا - بوش پیدا ہونا - کسی بات کی خواہش ہونا۔
 طیبعت بھر جانا - (ع-م-ا-م) (ع-م-ا-م) سیر ہو جانا (۲) دل اگت جانا۔
 طیبعت بہلنا - (ع-م-ا-م) (ع-م-ا-م) فرصت ہونا - ہی گن - وقت خوشی میں گزنا (۲) دل کا بے تڑپنے کی طرف مصروف ہونا۔
 طیبعت بے چین ہونا - (ع-م-ا-م) بے قرار ہونا - بے چینی ہونا۔
 طیبعت بے قابو ہونا - (ع-م-ا-م) طیبعت اختیار میں نہ ہونا (۲) کوئی کام یا بات کرنے سے ڈک نہ کرنا (۳) فریفتہ ہونا - مائل ہونا۔
 طیبعت پر لوجھڑانا - (ع-م-ا-م) بہت سوچنا یا غور و فکر کرنا۔
 طیبعت پر چھوڑ دینا - (ع-م-ا-م) کسی کی مرضی پر کام چھوڑ دینا۔
 طیبعت پر رکھ لینا - (ع-م-ا-م) ارادہ کر لینا۔
 طیبعت پر زور دینا - (ع-م-ا-م) بہت سوچنا - غور و فکر کرنا۔
 طیبعت پرگرائی ہونا - (ع-م-ا-م) (ع-م-ا-م) ہنسی ہونا (۲) ناگوار ہونا۔
 طیبعت پریشان ہونا - (ع-م-ا-م) ہی گھبرانا - دل اُلجھنا۔
 طیبعت پھرتا - (ع-م-ا-م) بیزار ہونا - اگت جانا۔
 طیبعت پھسلنا - (ع-م-ا-م) فریفتہ ہونا کسی کی طرف مائل ہونا۔
 طیبعت ٹھیک (پڑنا) ہونا - (ع-م-ا-م) (ع-م-ا-م) انگ باقی نہ رہنا (۲) بیمار ہونا۔
 طیبعت ٹھکانا - دل کو قرار ہونا - ملین ہونا۔
 طیبعت ثانیہ - (ع-ا-م) (ع-م-ا-م) دوسری طیبعت - عادت جو مزاج کا انداز پیدا کر لیتی ہے۔
 طیبعت حاضر ہونا - (ع-م-ا-م) کوئی کام اچھی طرح ہو سکتا - کسی کام کی طرف راغب ہونا۔
 طیبعت خراب ہونا - (ع-م-ا-م) متلی ہونا - بیمار ہونا۔
 طیبعت رگنا - (ع-م-ا-م) کسی کام کو کرنے میں پچھل جانا۔
 طیبعت دار - (ع-ص-ف) [زمین - ہوشیار - شوخ - چالاک - عالی دماغ۔
 طیبعت رنگ پر آنا - (ع-م-ا-م) (ع-م-ا-م) انگ پیدا ہونا - خواہش جاگنا۔
 طیبعت رواں ہونا - (ع-م-ا-م) طیبعت میں تیزی آنا - کسی کام کو اچھی طرح ادا کرنا (۲) طیبعت شریکے پر آمادہ ہونا۔
 طیبعت سنبھلنا - (ع-م-ا-م) (ع-م-ا-م) افتاقہ ہونا - مزاج درست ہونا۔
 طیبعت سن سے جو جانا - (ع-م-ا-م) کسی اچانک واقعہ سے صدر پر پہنچنا۔
 دل دھک سے رہ جانا۔

طبیعت شگفتہ ہونا - (۱- محاورہ) دل بکاش ہونا (۲) دھاقا پانہا کھل کر آنا۔
 طبیعت شناس - (ج- ف- صفت) (۱) مزاج پہچاننے والا - مزاج دان -
 طبیعت کی جولانی - (۱- مٹ) تیزی بلیغ - طبیعت کی وہ خاصیت جس
 کی وجہ سے نئی نئی باتیں سُرھیں۔
 طبیعت گدگدانا - (۱- محاورہ) اُنگ پیدا ہونا۔
 طبیعت کا بندہ - (ج- ف- صفت) اپنی مرضی سے کام کرنے والا۔

طیال - (ط- پان) دف - صفت (۱) تڑپنے والا۔
 طپا پختہ - (ط- پان) چڑ (دف - ۱- مذ) (۱) تپتہ - چائٹا (۲) تیسز ہوا
 کا جھونکا۔
 طپش - (ط- پیش) دف - ۱- مٹ (۱) تڑپ - مہلن - صیح پیش۔
 پٹپٹہ - (ط- پن) چڑ (دف - ۱- مذ) پتول - تپتہ۔

ط - ح

طحال - (ط- حال) (ج- ۱- مٹ) (۱) مٹا ہوا - ایک عضو جو جگر کے قریب ہے۔
 طحال - (ط- حال) (ج- ۱- مٹ) (۱) مٹا ہوا - وہ مرض جس سے نئی پھول جاتی
 ہے اور اس میں درد ہوتا ہے۔

ط - ر

طر - (طر- را) (ا- ۱- مذ) (۱) اونکھا بیب (۲) غالب - بڑھکر (۳) پگڑی
 کے اوپر کا سرا جو اُٹھا رہتا ہے (۴) ٹوٹی کا پھندا - گچھا (۵)
 زلف - کالٹ۔
 طر آجھانا - (۱- محاورہ) رُعب جمانا - بکتہ بھانا - ٹم چلانا۔
 طراج - (ج- ۱- مذ) بھار - نقاش۔
 طرار - (طر- رار) (ج- صفت) (۱) گرہ کٹ - پاکٹ مار - جیب گتزا (۲)
 چالاک - عیار - ہوشیار (۳) تیز زبان۔
 طرار فرار - (ج- ۱- مذ) بہت چالاک - نہایت شوخ - بڑا بے باک۔
 طرارہ - (ط- رار) (ط- را) (۱- مذ) (۱) چوکڑی - پھلانگ -
 جست - کلاج - اُچھل کود۔
 طرار سے بھرنا - (۱- محاورہ) (۱) تیز بھانگنا - سرسٹ دوڑنا (۲) فر فر پڑھنا۔
 طراری - (ط- را) (ری) دف - ۱- مٹ (۱) زبان کی شوخی - چھلا مٹ - تیزی -
 چالاک - عیاری۔
 طراز - (ط- راز) (ف - ۱- مذ) (۱) نقش و نگار - زینت - سجاوٹ (۲) شاہی باک
 (۳) وہ جگہ جہاں یہ لباس تیار ہو (۴) کسی تقریب پر شہر کی سجاوٹ۔
 (۵) زردوزی کا کام - کاری (۶) آراستہ کرنے والا۔
 طرازی - (ط- را) (زی) دف - ۱- مٹ (۱) سبانا - آراستہ کرنا - نقش و نگار بنانا۔
 پیراستہ کرنا۔
 طراوت - (ط- را) (فت) (ج- ۱- مٹ) (۱) (۱) نئی - تری - رطوبت (۲)
 ٹھنڈک - خشکی (۳) تازگی۔
 طراوت آنا - (۱- محاورہ) ٹھنڈک پیدا ہونا۔
 طراوت بخشنا - (مسن - مرکب) تازگی دینا - فرحت بخشنا۔
 طرب - (ط- رب) (ج- ۱- مٹ) (۱) خوشی - شادمانی - افسانہ۔
 طرب انیکیز - طرب خیز - طرب سچ - طرب فزا - (ج- صفت) فرحت

خود پسند - مزور۔
 طبیعت کالاک اُگلنا - (۱- محاورہ) نئے اور عمدہ مضامین پیدا کرنا۔
 طبیعت کا لہرانا لہریں مارنا - (۱- محاورہ) طبیعت میں اُنگ پیدا ہونا
 طبیعت کا مالش کرنا - (۱- محاورہ) اُپکائیاں آنا - جی ستلانا۔
 طبیعت کی آفتا - (۱- مٹ) عادت کا انداز - فطرت کا طور۔
 طبیعت گردانا - طبیعت کا قبول کرنا - طبیعت کسی طرف متوجہ کرنا۔
 طبیعت گرمانا - (۱- محاورہ) طبیعت بوش میں آنا۔
 طبیعت لا اُبالی ہونا - (۱- محاورہ) بے پردا ہونا - مزاج میں
 بے پردائی ہونا۔
 طبیعت لڑانا - (۱- محاورہ) بہت سوچنا - توجہ ڈالنا - متوجہ ہونا۔
 طبیعت لڑنا - (۱- محاورہ) ذوق پیدا ہونا - دماغی کام کرنا - طبیعت کا متوجہ
 ہونا - ذہن لڑنا - دل کے ساتھ کسی امر کی مناسبت اور لگاؤ رکھنا۔
 طبیعت لگنا - (۱- محاورہ) دل لگنا - جی پہلنا - بیج خاطر ہونا - دل کا مشغول
 یا مصروف ہونا۔
 طبیعت مائل ہونا - (۱- محاورہ) فریفتہ ہونا - کسی بات کی طرف رجوع کرنا
 طبیعت مٹی ہونا - (۱- محاورہ) افسردہ ہونا - رنجیدہ ہونا۔
 طبیعت چھلنا - (۱- محاورہ) ضد کرنا - ہٹ کرنا۔
 طبیعت ٹٹنا - (۱- محاورہ) مزاج میں موافقت ہونا۔
 طبیعت میں بل پڑنا - (۱- محاورہ) طبیعت بگڑنا - خفا ہونا - مکدر ہونا۔
 طبیعت موڑوں ہونا - (۱- محاورہ) مشورہ کن کی طرف مائل ہونا۔
 طبیعت میں تلون ہونا - (۱- محاورہ) ذرا ذرا سی بات پر ناراض ہونا۔
 طبیعت میں تیزی ہونا - (۱- محاورہ) نئی نئی باتیں سُرھنا - تیز مزاج ہونا۔
 طبیعت میں روانی ہونا - (۱- محاورہ) مشورہ مضمون سُرھنا (۲) طبیعت
 میں تیزی ہونا۔

طبیعت نہ لگنا - (۱- محاورہ) جی اُچھاٹ ہونا۔
 طبیعت ہٹ جانا - (۱- محاورہ) نفرت ہو جانا۔
 طبیعت ہونا - (۱- محاورہ) دل آنا - مشق ہونا - رحمت ہونا - جی چاہنا۔
 طبعی - (ط- بی - جی) (ج- صفت) (۱) سائنس جس میں خواص اشیاء اور تحقیقات سے
 بحث کی جاتی ہے - وہ علم جس میں اجسام کے تغیر و تبدل اور ان کی
 خاصیت کا سال بیان ہوتا ہے۔
 طبعیاتی - (ط- بی - جی) (بی - یاتی) (ط- بی - حات) (ج- ۱- مذ) علم الاجسام
 (بشرط نباتات و جمادات) فزکس۔

ط - پ

بختے والا - خوش کرنے والا - اُننگ بڑھانے والا - نشاط افزا -

طرب ناک - (رج - صف) فرحت بخش - خوش کرنے والا -

طر بلوش - (طر - بلوش) (ذ - ا) ترک ٹوٹی - سرخ رنگ کی اُوچی ٹوٹی -

طر بیتہ - (رج - ا) (ذ - ا) وہ تھوڑے یا ڈراما جس کا انجام خوشی ہو -

طرح - (رج - ا) (مٹ) (۱) وضع - انداز - ڈھنگ (۲) بنیاد - جڑ (۳) نقش کاری

نقاشی - خاکہ (۴) طیلدگی - جھڑائی (۵) حال احوال (۶) وہ مصرعہ جو مشاعرے

میں سزل کہنے کے لیے بحر، ردیف اور قافیہ بنانے کی خاطر مقرر

کرتے ہیں (۷) خارج کرنا - تفریق کرنا (۸) نئی عمارت (۹) صورت -

پیکر - شکل - نقشہ - گت - حالت -

طرح اڑانا - (۱) محاورہ (۲) انداز اڑانا (۳) طرح حاصل کرنا (۴) وضع

یکھ لینا -

طرح پر طرح - (رج - ف) صف - قسم - قسم کا - رنگ بزرگ -

طرح دار - (رج - ف) صف - خوب صورت - بانکا - وضع دار - رنگیلا -

خوش انداز -

طرح داری - (رج - ف) (مٹ) خوبصورتی - بانگہی - وضع داری -

طرح دے جانا - (۱) محاورہ (۲) مال جانا - چشم پوشی کرنا - درگزر کرنا -

بے پروائی کرنا -

طرح ڈالنا - (۱) محاورہ (۲) بنیاد ڈالنا (۳) تدبیر کرنا -

طرح کرنا - (مٹ) (۱) تفریق کرنا (۲) سزل کہنے کے لیے بحر،

ردیف اور قافیہ بنانے کی خاطر مصرع بنانا (۳) (کیسا) آگ پر سرخ کی

ہوئی دھات پر کوئی ایسی دوا ڈالنا جو اس کی رنگت تبدیل کر دے -

طرح ٹو - (رج - ف) صف (۱) نئی بنیاد (۲) نئی طرز - نیا ڈھنگ - نیا انداز

طرحیں نکالنا - (۱) محاورہ (۲) طرزیں ایجاد کرنا -

طرحی سزل - (طر - ہی) سزل (۱) (مٹ) وہ سزل جو مقررہ طرح پر

کھی جائے -

طرحی مشاعرہ - (طر - ہی) تم - شا - بع - وہ (۱) (مٹ) وہ مشاعرہ جس

میں مقررہ طرح پر سزئیں پڑھی جائیں -

طرز - (رج - ا) (مٹ) (ذ) (۱) روش - طور - طریقہ - ڈھنگ - انداز - قاعدہ

قانون (۲) شکل - وضع - ہیئت (۳) عادت - خو (۴) مشاغل -

طرز اڑانا - (۱) محاورہ (۲) نقل کرنا - دوسروں کی کوئی وضع اختیار کرنا -

انداز یکھنا -

طرز (تحریر) عبارت - (رج - ا) (مٹ) کہنے کا ڈھنگ - معنوں کی نگاری

کا طریقہ -

طرز کل - (رج - ا) (ذ) رویت - روش - سلوک -

طرز قدیم - (رج - ا) (مٹ) پرانی وضع - پرانا طریقہ -

طرز کلام - (رج - ا) (مٹ) انداز گفتگو - بات کا طریقہ -

طرف - (ط - ف) (ذ) (رج - ا) (مٹ) (۱) جانب - پہلو - رخ - سمت - بازو

(۲) کنارہ - حاشیہ - سرا - اُفق (۳) مقابل - توپ - فریق (۴) پاس -

لحاظ (۵) سبب - حج - اطراف -

طرف اول - (رج - ا) (مٹ) دوسرے دار - دہی - مستقیث - پہل طرف -

طرب ثانی - (رج - ا) (مٹ) مخالف - مدعا علیہ - فریق ثانی - لازم -

دوسری طرف -

طرف دار - (رج - ف) صف - ساتھی - مددگار - حمایتی - پاسداری کرنے والا

بسی فریق کا آدمی -

طرف دار ہونا - (مٹ) مددگار ہونا - حمایتی ہونا -

طرف داری - (رج - ف) (مٹ) پاس - لحاظ - حمایت - جانبداری -

طرف داری کرنا - (۱) محاورہ (۲) پاس داری کرنا - حامی و مددگار ہونا -

جانب داری کرنا -

طرفت - طرفتہ - (طرفت) (طر - ف) (مٹ) (رج - ا) (مٹ) آنکھ کا جھپکا -

طرفتہ العین - (رج - ا) صف (۱) پک بھپکاتے میں - پک مارتے میں -

ذرا سی دیر میں - اُن کی آن میں -

طرفگی - (طر - ف) (گی) (ذ) (مٹ) خوبی - عمدگی - مجربین - قدرت -

طرفہ - (طر - ف) (رج - صف) (۱) نیا (۲) انکا - عجیب - نادر - عمدہ - خوش آئند -

طرفہ تماشا - (رج - ف) (۱) (۲) عجیب و غریب کھیل - انکا تماشا - عجیب واقعہ -

طرفہ گل پھولنا - (۱) محاورہ (۲) کسی عجیب و غریب بات کا ظہور میں آنا -

نئی بات ہونا -

طرفہ گل کھلانا - (۱) محاورہ (۲) عجیب و غریب کام کرنا -

طرفہ ماجرا - (رج - ا) (ذ) انکا واقعہ - عجیب کی بات -

طرفہ مجنون - (رج - ا) (ف) (۱) وہ چیز جو عجیب و غریب اشیاء سے مرکب ہو

(۲) عجیب آدمی (۳) بے وقوف یا احمق شخص -

طرفہ یہ سے - (۱) محاورہ (۲) انکی بات یہ ہے - جبرت یہ ہے - تعجب یہ ہے -

طرفین - (ط - ف) (فین) (رج - ا) (ذ) (۱) فریقین - دونوں جانب - دہی - مقابلہ

(۲) اصطلاح فقہ میں امام ابوحنیفہ اور امام محمد -

طرفین سلسلہ - (۱) زنجیر کے دونوں سرے (۲) ایک سلسلے کی دونوں

طرف کے عدد یا نشان -

طرہ - (طر - ر) (رج - ا) (ذ) (۱) زُلف لاکل - سر کے بالوں کی لٹ (۲) وہ

پھندا جو بگڑی کے اوپر لگاتے ہیں - بگڑی کے اوپر کا سرا جو اٹھا رہتا

ہے - جانوروں کی کھنی (۳) غالب - بڑھ کر سبقت لے جانا (۴) انکا

عجیب (۵) جھما - منڈیر (۶) کوئی بیچ دار چیز (۷) کوڑا - تازیا -

(۸) اضافہ - حلاوہ (۹) انکی بات - خوبی - عمدگی (۱۰) حال - پھندا -

(۱۱) جنگ کی چٹکی یا گھونٹ (۱۲) پھولوں کی لڑیوں کا گچھا جو ڈوٹھا

کے کان کے پاس لگتا ہے (۱۳) سبز - نازک شاخیں جو درخت نشاد

سے نکل کر پینے کو ملتی ہیں (۱۴) ایک قسم کا سرخ اور زرد پھول -

(۱۵) کسی چیز کا بہترین حصہ -

طرہ باز - (رج - ا) (صف) (۱) اکڑنے والا (۲) وہ شخص جو بگڑی پر طرہ لگائے -

طرہ بجانا - (۱) محاورہ (۲) رُعب جمانا - حکم کرنا -

طرہ پڑھانا - (۱) محاورہ (۲) جھنگ لینا -

طرہ طرار - (رج - ا) (ذ) محبوب کی رفتیں -

طرہ کا حال - (۱) (ذ) ایک قسم کا حال جو عورتیں کا وضعی ہیں -

طرہ کرنا - (۱) محاورہ (۲) تیز کرنا - چکانا (۳) بڑھانا -

طمعہ روکنا۔ (۱۔ محاورہ) شکاری جانور کی خوراک شکار سے پہلے بند کر دینا۔
طمعن۔ (ر۔ ع۔ ا۔ ذ) (۱) طمزن۔ سلامت۔ حرف گیری (۲) نیند سے کی ضرب۔

طمعن آمیز۔ (ر۔ ع۔ ف۔ صفت) طمزن یا سلامت سے بھرا ہوا۔
طمعن تر روز۔ (ا۔ ذ) طمئن و تعریض کا بگڑا ہوا۔ لعنت سلامت، طمئن ہنا۔
طمعن تیشع۔ (ر۔ ع۔ ا۔ مٹ) طمئن ہنا۔ پھیٹ چھاڑ۔ آوازہ توازہ۔

جلی کچھ بات۔
طمعن کوڑنا۔ (ا۔ محاورہ) طمزن کرنا۔ طمئن دینا۔
طمعن کرنا۔ (ا۔ محاورہ) (۱) آوازہ کنا (۲) نیند سے کی ضرب لگانا۔
طمئنہ۔ (م۔ ط۔ ع۔ ا۔ ذ) (۱) نیند ماننا (۲) آوازہ کنا۔ طمزن کرنا۔

طمئنہ آمیز۔ (ر۔ ع۔ صفت) طمزن سے بھرا ہوا۔
طمئنہ تیشع۔ (ا۔ ذ) طمئن و تیشع کا بگاڑا ہوا۔ بڑا جھلا۔ لعنت سلامت۔
طمئنہ دینا۔ (ا۔ محاورہ) سلامت کرنا۔ پھیڑنا۔ آوازہ کنا۔

طمئنہ زدن۔ (ر۔ ع۔ ا۔ ذ) طمئن دینے والا۔
طمئنہ زنی۔ (ر۔ ع۔ ا۔ مٹ) تیشع دینا۔ پھیڑ چھاڑ۔ آوازہ کنا۔
طمئنہ مارنا۔ (ا۔ محاورہ) طمئن زنی کرنا۔

طمئنہ ہینا۔ (ر۔ ع۔ ا۔ ذ) بڑا جھلا۔ پھیڑ چھاڑ۔ طمئن تیشع۔
طمئنہ تیشع۔ (چینے) دینا (سُننا)۔ (ا۔ محاورہ) بڑا جھلا کنا۔
طمئنہ سُننا۔ (ا۔ محاورہ) لوگوں کی طمئن آمیز گفتگو سُن کر چب رہنا۔

ط — ع

طمظرا۔ (م۔ ط۔ ر۔ ا۔ ذ) (۱) نشانی، علامت (۲) تحریر۔ عربی رسم الخط میں پیچیدہ مگر فن کارانہ اور خوبصورت تحریر۔ ہر یا انگوٹھی پر کھدی ہوئی خوبصورت تحریر۔

طمظرائیس۔ (ر۔ ع۔ ف۔ ا۔ ذ) وہ خوش نویس جو طمظرا لکھنے میں ہارت لکتا رہو۔ طمظرا لکھنے والا۔

طمظرائے امتیاز۔ (ر۔ ع۔ ف۔ صفت) بزرگی کی نشانی۔ وہ خصوصیت یا لیاقت جو دوسروں میں نہ ہو۔

طمظرائے ندامت۔ (ر۔ ع۔ ف۔ ا۔ ذ) شرمندگی کا نشان۔

طمظراق۔ (م۔ ط۔ ر۔ ا۔ ذ) (۱) دن، (۲) وہ گھونٹہ یا ٹمکا جو کپٹی پر مارا جائے۔
طمظریان۔ (م۔ ط۔ یان) (۱) ع۔ ا۔ ذ) بڑی زیادتی، ظلم، نافرمانی۔

طمظریان۔ (م۔ ط۔ یان) (۱) ع۔ ا۔ مٹ) (۱) سرکشی، بغاوت۔ حد سے بڑھنا۔ (۲) سیلاب، پانی کا بڑھاؤ (۳) زیادتی، افزونی۔
طمظریان پر آنا۔ (ا۔ محاورہ) سیلاب آنا۔

ط — ف

طمظفل۔ (ر۔ ع۔ ا۔ ذ) لڑکا، بچہ۔ جمع، اطفال، طفلان۔

طرہ گل۔ (ف۔ ا۔ ذ) چٹولوں کا پچھا جو دستا میں لگاتے ہیں۔
طرہ ہونا۔ (ا۔ محاورہ) (۱) زیادہ ہونا، فائق ہونا (۲) اٹکنا ہونا۔ بڑھ کر ہونا۔

طرہ سے۔ (ا۔ متعلق فعل) زیادتی ہے۔
طرہ سے باز خال۔ (ر۔ ع۔ ف۔ ا۔ ذ) وہ شخص جو پگڑی پر طرہ لگاٹے۔ اکل باز خال۔

طریق۔ (ط۔ ر۔ یق) (ر۔ ع۔ ا۔ ذ) (۱) راستہ۔ سڑک (۲) طرز، ڈھنگ۔ روش۔ (۳) مذہب۔ شریعت (۴) رواج، دستور۔
طریق عمل۔ (ر۔ ع۔ ا۔ ذ) کام کرنے کا طریقہ۔

طریقیت۔ (ط۔ ر۔ یق) (ر۔ ع۔ ا۔ مٹ) (۱) راستہ (۲) تصوف کی اصطلاح میں ترکیب یا طمئن۔ صوفیوں کا طریقہ جس سے روحانی کمال حاصل ہوتا ہے۔
طریقہ۔ (ط۔ ر۔ یق) (ر۔ ع۔ ا۔ ذ) (۱) طرز، ڈھنگ، روش (۲) قاعدہ۔ ترکیب، گڑ۔ مذہب۔

طریقہ آنا۔ (ا۔ محاورہ) کام کرنے کا ڈھنگ معلوم ہونا۔
طریقہ برتنا۔ (ا۔ محاورہ) کسی قاعدے یا دستور پر چلنا۔

ط — ش

طشت۔ (ر۔ ع۔ ا۔ ذ) (۱) قاتل۔ لگن۔ تسلا (۲) لختہ دھونے کا برتن۔ چلیبی (۳) پیالہ۔

طشت ازبام ہونا۔ (ا۔ محاورہ) (۱) ظاہر ہونا، مشہور ہونا، عام ہونا۔ عیال ہونا (۲) سُوا ہونا، بدنام ہونا۔

طشت چوکی۔ (ر۔ ع۔ ا۔ مٹ) پاخانے کا برتن اور وہ جو کی جس پر قضاٹے حاجت کے وقت بیٹھتے ہیں۔

طشت زر۔ (ر۔ ع۔ ف۔ ا۔ ذ) (۱) سولے کا قاتل (۲) سُرُج۔

طشتری۔ (م۔ ط۔ ش۔ یق) (۱) رسی، ڈاڑ۔ (۲) مٹ) دکابی، پھوٹی قاتل، بروج۔

طشتری لکھنا۔ (۱) حامل کاپیسی کی دکابی پر نقش لکھنا تاکہ اسے دھو کر پینے سے مرض اور آسیب کا مثل دور ہو۔

ط — ع

طعام۔ (ط۔ ع۔ ا۔ ذ) (۱) کھانا، بھوجن۔ غذا۔
طعام عروسی۔ (ر۔ ع۔ ا۔ ذ) شادی کی دعوت۔

طعم۔ (ر۔ ع۔ ا۔ ذ) ذائقہ، مزہ، لذت۔

طعم۔ (ر۔ ع۔ ا۔ ذ) خوراک۔ چوگا۔

طعمہ۔ (م۔ ط۔ ع۔ ا۔ ذ) (۱) روزی، رزق (۲) لقمہ، نوالہ (۳) شکاری جانور یا پستاندار کا کھانا۔

طعمہ ابل ہونا۔ (ا۔ محاورہ) موت کا نوالہ ہونا۔ مرنا۔

طفل اُنك - (ع - ا - مذ) اُنسو۔

طفل اُقتادہ - (ع - ف - ا - مذ) وہ بچہ جسے ماں باپ چھوڑ کر چلے جائیں۔
بڑا ہوا بچہ۔ لاوا دشت بچہ۔

طفل دستان - (ع - ف - ا - مذ) طفل مکتب، مکتب میں پڑھنے والا بچہ۔
(۱) طالب علم، مبتدی (۲) نا تجربہ کار شخص۔

طفل شیرخوار - (ع - ف - ا - مذ) دودھ پیتا بچہ۔
طفل مزاج - (ع - صفت) وہ شخص جس کے مزاج میں بچپنا ہو۔
طفل چمندو - (ع - ا - مذ) آنکھ کی پتلی۔

طفلان - (طفت - لان) (ف - ا - مذ) طفل کی جمع - بچے۔

طفلان چمن - (ع - ف - ا - مذ) باغ کا سبزہ اور پھولوں کی کھیاں اور گونے۔

طفلانہ - (طفت - لان) (ف - صفت) بچوں کی طرح، بچوں جیسی۔

طفلی - (طفت - لی) (ع - ا - مذ) (۱) لڑکپن، بچپن کی عمر (۲) نادانی۔

طفولت - طفولیت - (ط - ف - ل) (ف - لی - یت) (ع - ا - مذ) (۱) بچپن۔

طفیلی - (ط - ف - لی) (ع - ا - مذ) ذریعہ، وسیلہ، بدولت، سبب۔

طفیلی طفیلیا - (ط - نے - لی) (ط - نے - لی) (یا - اُر - صفت) بن بلا یا پیمان
دوسروں کی بدولت گزارہ کرنے والا۔ پھلگو - دوسروں کے سسر
سے کھانے والا۔

ط - ط

طلا - (ط - لا) (ع - ا - مذ) (۱) سونا، مائع (۲) اصطلاح طب میں ایک خاص

روغن پوستی اور نامردی کو رفع کرنے کے لیے عضو پر ملتے ہیں (۳) لذت

طلا بائی - (ف - ا - مذ) جس پر بڑے کی بیانی میں سونے کے تار شامل ہوں۔

طلا دوز - (ف - صفت) جس چیز پر طلائی کام کیا گیا ہو۔ طلا کار۔

طلا ساز - (ع - ف - صفت) سونا بنانے والا۔ کیا گر۔

طلا کار - (ع - ف - صفت) (۱) وہ چیز جس پر سونے سے نقش و نگار
بنائے جائیں (۲) کیا گر (۳) مائع ساز۔

طلاطم - (ع - ا - مذ) دیکھے تلاطم۔

طلا کاری - (ع - ا - مذ) (۱) سونے کا کام بنانا (۲) سونے کے کام کا
پیشہ (۳) سونے کا کام۔

طلا کوب - (ع - ف - صفت) سونے کے درق کو ٹھنڈے والا۔

طلائے ناب - (ع - ف - ا - مذ) خالص سونا۔

طلاب - (طل - لاب) (ع - ا - مذ) (۱) طالب کی جمع (۲) طالب علم، مبتدی۔

طلاق - (ط - لاق) (ع - ا - مذ) (۱) نکاح کا فسخ ہونا۔ عدت کا نکاح سے
آزاد ہونا (۲) آزادی (۳) روانی، کشادگی۔

طلاق بائن - (ع - ا - مذ) عدت کے دوران طلاق جس میں رجوع
میں کیا جاسکتا۔

طلاق بدعت (ہدسی) - (ع - ا - مذ) بے قاعدہ طلاق جو ایک ہی

دفعہ میں طلاق کہہ کر دی جائے۔

طلاق حسن - (ع - ا - مذ) وہ طلاق جو شریعت کے مطابق دی جائے۔
ایک ایک کر کے وقت مقررہ کے بعد دی جانے والی طلاق۔

طلاق طلع - (ع - ا - مذ) کچھ دے کر عدت کا طلاق لے لینا۔

طلاق دینا - (مسن - مرکب) بیوی کو چھوڑنا۔ قانون مذہب کے
مطابق زوجہ سے قطع تعلق کرنا۔

طلاق رجعی - (ع - ا - مذ) طلاق کا پہلا درجہ۔ وہ طلاق جس کے بعد
آدی بیوی کی طرف رجوع کر سکتا ہے۔

طلاق کنایہ - (ع - ا - مذ) کسی کے اشارے سے دی ہوئی طلاق۔ وہ طلاق
جو صاف الفاظ میں نہ ہو۔

طلاق لینا - (مسن - مرکب) عدت کا خاتمہ سے آزادی حاصل کرنا۔

طلاق منقطع - (ع - ا - مذ) طلاق کا تیسرا درجہ۔ قطع طلاق۔

طلاق نامہ - (ع - ف - ا - مذ) وہ دستاویز جس میں طلاق کی شرائط درج ہوں۔
خطا بیک

طلاقت - (ط - لا - ق) (ع - ا - مذ) عہد زبانی، لسانی، تیز زبانی۔

طلاقن - (ط - لا - قن) (اُر - ا - مذ) وہ عدت جسے طلاق دی گئی ہو۔

طلائی - (ط - لا - ای) (ف - صفت) سہری، سونے کا۔

طلائی کام - (ف - ا - مذ) زردوزی یا کاروباری کام جو کپڑے پر کیا ہوا ہو
طلائے اکمر - (ع - ا - مذ) مخرج سونا، گندمی۔

طلایہ - (ط - لا - یہ) (ف - ا - مذ) وہ فوج جو رات کو لشکر یا شہر کی حفاظت
کے لیے پولیس کی روئے گشت۔

طلایہ گردی - (ف - ا - مذ) رات کی گشت۔ رات کا پہرہ۔

طلائے دست افشار - (ف - ا - صفت) وہ سونا جو ہاتھ میں دب جائے۔

(۲) وہ سونا جو خسرو پوز کے مزانے میں تقاد اس سے تیز بنایا تھا۔

طلب - (ط - لب) (ع - ا - مذ) (۱) مانگ (۲) خواہش، آرزو (۳) لذت، دعت۔

(۴) جستجو، تلاش (۵) بلاوا، طلبی (۶) خواہ۔ شاہرہ (۷) وہ چیز جو مانگی جائے۔

طلب بانگشا - (ا - محاورہ) خواہ قسم کرنا۔

طلب بچھانا (مٹانا) - (ا - محاورہ) خواہ مٹانا۔ آرزو پوری کرنا۔

طلب دار - (ع - ف - صفت) (۱) کسی چیز کا خواہش مند (۲) خواہ دار۔

طلب کرنا - (مسن - مرکب) (۱) بلانا (۲) مانگنا (۳) دعویٰ کرنا۔

طلب گار - (ع - ف - صفت) (۱) خواہش مند (۲) متلاشی۔

طلب مٹانا - (ا - محاورہ) خواہش مٹانا۔ طلب پوری کرنا۔

طلب نامہ - (ع - ف - ا - مذ) مسن - حاضر عدالت ہونے کا
سرکاری پر وازہ۔

طلبنا - (ط - ل - با) (ع - ا - مذ) طلب کی جمع (۲) ڈھونڈنے والے (۳) طالب علم۔

طلبانہ - (طل - با - نہ) (ف - ا - مذ) (۱) سپاہیوں کا لوہہ۔ روزینہ (۲) وہ
لوہیہ جو گواہ کو عدالت میں طلب کرنے کے واسطے لیا جائے۔

طلبیہ - (ط - ل - یہ) (ع - ا - مذ) (۱) طالب کی جمع (۲) طالب علموں کی جماعت
(۳) طلب کرنے والے۔

طلبی - (ط - ل - ی) (اُر - ا - مذ) (۱) بلاوا۔ حاضر ہونے کا محکم۔ طلب۔ بلاوا۔
طلبی ہونا - (ا - محاورہ) بلایا جانا۔ حاضری کا حکم ہونا۔

طلبیدہ - (ن - صف) بلا یا ہوا۔

طلسم - (ط - رسم) (ع - ۱ - مذ) (۱) جادو - سحر (۲) جادو کا تماشا (۳) ڈراؤنی شکل یا منسوخی سانپ کی شکل جو ذہنوں پر مانی جائے (۴) راز۔ (۵) جادو کے خطوط اور نقش (۶) وہ ملک جہاں جادوگر رہتے ہوں۔ (۷) جہان مٹی کا تماشا (۸) وہ علم جو مہوم خیالات کو عجیب شکل کے ساتھ نظریں لائے۔ جمع: طلسمات۔

طلسم آمیز (افزا) - (ع - ن - صف) حیرت انگیز - عجیب۔
طلسم باندھنا - (۱) محاورہ) عجیب و غریب بات کر کے دکھانا۔ انوکھی بات کرنا۔ جادو مंत्र کا شعبہ دکھانا۔

طلسم بند - (ن - ۱ - مذ) مंत्र اور جادو کے اثر میں مبتلا۔
طلسم توڑنا - (۱) محاورہ) (۲) مازا افشا کرنا۔ کسی کے فریب کو کھولنا (۳) جادو گر کا کام فسخ کرنا (۴) جادو کا اثر جادو کے زور سے دور کرنا۔ جادو کا اثر زائل کرنا۔

طلسم کشا - (ن - ۱ - مذ) وہ شخص جو طلسم کو فسخ کرے یا توڑے۔
طلسم ماہ - (ع - ن - ۱ - مذ) زبان بندی کا صوبہ جو شرف ماہ میں لکھا جاتا ہے
طلسمات - (ط - لیس - مات) (ع - ۱ - صفت) طلسم کی جمع - حیرت میں ڈالنے والا منظر۔

طلسماتی - (ط - لیس - مات) (ن - ۱ - صفت) جادو کا - آفت کا۔
طلسمی - (ط - لیس - می) (ن - ۱ - صفت) جادو کے متعلق - جادو کا۔
طلعت - (طل - صفت) (ع - ۱ - صفت) (۱) چہرہ - رخ - شکل (۲) نکارہ - دیدار۔

طلعت زریبا - (ن - ۱ - صفت) خوبصورت شکل یا چہرہ۔
طلوع - (ط - ک - ن - ۱ - مذ) (۱) سورج، چاند، ستارے کا نکلنا (۲) بلند ہونا۔

طلوع صبح - (ع - ۱ - مذ) صبح ہونا۔
طلیعیہ - (ط - لی - عد) (ع - ۱ - مذ) وہ لشکر جو فوج کے آگے دشمن کی نقل و حرکت کا پتہ لگاتا ہے۔ ہراول - سکاوٹ - شہر اور لشکر کی محافظت کرنے والی سپاہ۔

طلیق - (ع - صفت) ہنس کھنڈہ پیشانی (۲) قید سے رہائی پایا ہوا۔
طلیق اللسان - (ع - صفت) فصیح - خوش بیان - خوش تقریر۔

طمانچے سے منہ لال کرنا - (۱) محاورہ) (۲) تھپتھار کر مٹرخ کر دینا (۳) بناوٹ سے سرخروئی ظاہر کرنا۔

طمانیت - طمانیت - (اُڑ - ۱ - صفت) دل جمعی - اطمینان - تسلی۔

طمشت - (ع - ۱ - مذ) عین کا خون۔

طمطراق - (ط - ط - راق) (ن - ۱ - مذ) شان و شوکت - دھوم دھام - کزوفز۔
طمطراب - (ع - ۲) عزر - تجر -

طمطراقی - (ط - ط - راقی) (ن - ۱ - صفت) شان اور تمہل۔

طمع - (ط - مع) (ع - ۱ - صفت) (۱) لالچ - حرص (۲) خواہش - چاہ۔

طمع خام - (ع - ن - ۱ - صفت) ایسی خواہش جس کا پورا ہونا ممکن نہ ہو۔

طبری نہ ہونے والی آرزو - تمنائے ناقص۔

طمع دُنیا - (مع - مرکب) مال و دولت کی حرص۔

طمع راستہ حرف است و ہر سہ سستی - (ن - صفت) طمع کے تین حرف ہیں اور تینوں نقطوں سے خالی ہیں - لالچ سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔

طمع کار - (ع - ن - صفت) لالچی - جریس۔

طمع کا منہ کالا - (۱) لالچ کرنے والا ذلیل ہوتا ہے۔

طمینجہ - (ط - من - چہ) (اُڑ - ۱ - مذ) (۱) چھوٹی بندوق - پستول (۲)

(بازاری) فٹیز نیچی - کٹواری - دوشیرہ (۳) ویشا - کسی - جو ابھی بیای نہ ہو۔

ط - ن

طناب - (ط - ناب) (ع - ۱ - صفت) (۱) نیچے کی رسی (۲) وہ رسی جس سے زمین پاتے ہیں (۳) بازی گردوں کا رسا (۴) رسی - ڈوری۔

طنابیں چھیننا - (۱) محاورہ) (۲) نیچے کی رسی کو کھینچ کر باندھنا (۳) دُوری یا فاصلے کو کم کرنا۔

طناز - (طن - ناز) (ع - صفت) (۱) طنز کرنے والا (۲) ناز و انداز سے

چلنے والا (۳) شوخ - بے باک - چالاک (۴) اشارے کنٹے میں بات کرنے والا۔

طنازی - (طن - نا - نسی) (ع - ن - ۱ - صفت) (۱) شوخی - بے باکی - چالاک (۲) طنز - رمز - کنایہ۔

طنبور - طنبورہ - (طن - بور - زہ) (ع - ۱ - مذ) ایک قسم کا تار۔

تان پورہ - تنبورہ۔

طنبی - (طن - بی - تی) (ع - ۱ - صفت) کھڑکی۔

طنز - (ع - ۱ - صفت) (۱) طعنہ - ہنسنا - آوازہ (۲) ٹٹھ - مسخر (۳) رمز کے ساتھ بات کرنا۔

طنز آمیز - وہ بات جو طعنے کے طور پر کہی جائے۔

طنزاً - (طن - زن) (ع - ۱) طعنے سے (۲) اشارتاً - کنیتاً - رمزاً۔

طنزیہ - وہ بات جس میں طنز پائی جائے۔ جمع: طنزیات۔

ط - م

طباع - (طم - باع) (ع - صفت) بہت لالچی - بڑا حرص۔

طمانچہ - (ط - مان - چہ) (اُڑ - ۱ - مذ) تھپتھار - جو کسی کے گال پر لگائیں - تسلی - روانی بڑھانے کی تھپکی۔

طمانچہ بڑنا (جمانا) - (۱) محاورہ) تھپتھار لگانا - لپٹ مارنا۔

طمانچے سے منہ لال رکھنا - (۱) لالچ - طمع میں بھی خودداری قائم رکھنا (۲) صاحبِ عیزت ہونا۔

طوطی - (طوطی) (ن - ۱۰ مذ و ص) ایک خوش آواز پھونپار بند - طوطا۔
 طوطی بولنا - (۱) عاودہ) شہرت ہونا (۲) رسوخ ہونا (۳) اچھی رائے
 حاصل کرنا۔ اختیار یا رسوخ حاصل کرنا۔
 طوطے اڑھانا - (۱) عاودہ) سخت گھبراہٹا۔ بدحاس ہوجانا۔
 طوطے کی طرح آنکھیں بدل لینا - (۱) عاودہ) بے وفائی کرنا۔
 بے پروائی کرنا۔

طوطے کی طرح پڑھنا - (۱) عاودہ) بے سوچے سمجھے پڑھنا۔
 طوطیا - (طوط - یا) (ف - ۱۰ مذ) (۱) نیلا تھوکتا (۲) تہمت - بہتان - الزام۔
 طوطیا باندھنا - (۱) عاودہ) تہمت دھرنا۔ الزام لگانا۔ ٹھک لگانا۔
 طوع - (ع - ۱) (ص) (۱) رغبت - رضامندی (۲) دل کی خوشی - خوشنودی
 خاطر (۳) اطاعت - فرمانبرداری۔

طوعاً - (طوع) (ن) رضامندی سے۔ اپنی مرضی سے۔
 طوعاً و کرہاً - چارونواچار - جبراً - خواہ مخواہ۔

طوف - (ع - ۱) (ذ) (۱) طواف کرنا۔ گرد پھرنا۔
 طوف (حرم) کعبہ - (ع - ۱) (ص) (۱) حرم کے ارد گرد پھرنا۔ کعبے کا طواف
 طوفان - (طوفان) (ع - ۱) (ذ) (۱) عرق کر دینے والی رود سیلاب۔ پانی کا پڑھنا
 بارش (۲) آسمی تیز تند ہوا (۳) عظیم مصیبت - سانحہ عظیم (۴) شور غل (۵) بہتان
 تہمت - الزام (۶) فساد بھگنا (۷) آفت (۸) تہمت - کراہم (۹) کا عظیم - بڑا بھاری کام
 طوفان اٹھانا - (۱) عاودہ) (۲) بہتان لگانا۔ الزام دھرنا (۳) فساد برپا
 کرنا (۴) آفت مچانا۔

طوفان اشک - (ع - ۱) (ذ) (۱) آنسوؤں کا طوفان۔ بہت رونانا بہت آنسو بہنا
 طوفان اگلنا - (۱) عاودہ) طوفان پیدا کرنا کثرت کے ساتھ کوئی چیز پیدا کرنا۔
 طوفان اُمتڈنا - (۱) عاودہ) طوفان زیادہ ہونا۔
 طوفان باندھنا - (۱) عاودہ) (۲) تہمت لگانا۔ ہد نام کرنا (۳) مبالغہ
 کرنا۔ بہت بڑھا کر کہنا۔

طوفان برپا کرنا - (۱) عاودہ) (۲) بھگنا کرنا (۳) اٹھل چناڑھ مچانا۔
 طوفان جوڑنا - (۱) عاودہ) (۲) بہتان لگانا (۳) الزام تراشنا۔

طوفان ڈھانا - (۱) عاودہ) غضب کرنا۔
 طوفان رسیدہ - (ع - ۱) (ص) (۱) طوفان سے تباہ شدہ۔

طوفان شیطان - (۱) تہمت اور بہتان - الزام (۲) فتنہ و فساد۔
 طوفان شیطان اللہ بھگنا - (دش) (۱) شیطان تہمت اور بہتان سے
 اٹھ بھانے (۲) طوفان اور شیطان سے خدا محفوظ رکھے۔

طوفان کھرا کرنا - (۱) عاودہ) فساد اٹھانا۔ فتنہ برپا کرنا (۲) بہتان لگانا۔
 طوفان میں آنا - (۱) عاودہ) کستی یا جہاز کا ہوا یا پانی کی طغیانی میں پھیننا۔
 پانی کے تلاطم کے باعث ڈوب جانا۔

طوفان نوح - (ع - ۱) (ذ) (۱) پانی کا وہ سیلاب جو حضرت نوح کے زمانے میں آیا
 تھا اور حضرت نوح کے ماننے والوں کے علاوہ باقی سب عزقاب ہو گئے تھے
 طوفان ہونا - (۱) عاودہ) (۲) تند و تیز ہوا کا چلنا (۳) سخت شریر ہونا۔
 طوفانی - (طوف - فانی) (ف - ۱) (ص) (۱) طوفان سے منسوب - جھوٹا۔ شریر۔
 فساد - فتنہ باز (۳) آفت - بلا۔ غضب - آفت کا پرکار۔

طنطنہ - (طن - ۱) (ذ) (ع - ۱) (ذ) (۱) غبور اور مربوط وغیرہ کی آواز۔ نثارہ
 یا دامام کی آواز (۲) رعب - دیدہ (۳) کزوفز - شان و شوکت (۴)
 غصہ - ہمزاجی - خزر - گھنڈ (۵) شور - غلغلہ۔
 طنطنہ بلند ہونا - (۱) عاودہ) شور مچنا۔ غلغلہ بلند ہونا۔
 طنطنہ دکھانا - (۱) عاودہ) (۲) حکومت دکھانا (۳) اترانا (۴) ڈرانا۔
 دکھانا (۴) کزوفز دکھانا۔

ط - و

طواس - (ط - واس) (ق - ۱) (ذ) (۱) قالمین۔
 طواسین - (ع - ۱) (ذ) (ط - واس) کی جمع (۲) حسین بن منصور کی ایک کتاب
 کے ابواب (۳) الاراح تعلیم۔

طواف - (ط - و) (ف) (ع - ۱) (ذ) (۱) کسی چیز کے گرد پھرنا (۲) کسی بزرگ
 یا مقدس مقام کے گرد چکر لگانا (۳) گردش۔

طواف بیت اللہ - (ع - ۱) (ذ) (۱) کعبہ کا طواف۔
 طواف کرنا - (۱) گرد پھرنا۔ کسی کے چاروں طرف گھومنا۔

طوالت - (ط - و) (ل) (ع - ۱) (ص) (۱) طویل - لمبائی - درازی (۲)
 زیادتی - افزونی (۳) دیر - تاخیر۔

طوالت پذیر - (ع - ۱) (ص) (۱) طوالت پکڑنے والا - لیا ہونے والا۔
 طوالت - (ط - و) (ف) (ع - ۱) (ذ) (۱) ٹانگی کی جمع - (۲) گروہ - قویں قبیلے
 (۳) (۴) (۱) (۲) (۳) (۴) (۵) (۶) (۷) (۸) (۹) (۱۰) (۱۱) (۱۲) (۱۳) (۱۴) (۱۵) (۱۶) (۱۷) (۱۸) (۱۹) (۲۰) (۲۱) (۲۲) (۲۳) (۲۴) (۲۵) (۲۶) (۲۷) (۲۸) (۲۹) (۳۰) (۳۱) (۳۲) (۳۳) (۳۴) (۳۵) (۳۶) (۳۷) (۳۸) (۳۹) (۴۰) (۴۱) (۴۲) (۴۳) (۴۴) (۴۵) (۴۶) (۴۷) (۴۸) (۴۹) (۵۰) (۵۱) (۵۲) (۵۳) (۵۴) (۵۵) (۵۶) (۵۷) (۵۸) (۵۹) (۶۰) (۶۱) (۶۲) (۶۳) (۶۴) (۶۵) (۶۶) (۶۷) (۶۸) (۶۹) (۷۰) (۷۱) (۷۲) (۷۳) (۷۴) (۷۵) (۷۶) (۷۷) (۷۸) (۷۹) (۸۰) (۸۱) (۸۲) (۸۳) (۸۴) (۸۵) (۸۶) (۸۷) (۸۸) (۸۹) (۹۰) (۹۱) (۹۲) (۹۳) (۹۴) (۹۵) (۹۶) (۹۷) (۹۸) (۹۹) (۱۰۰)

طوائف الملوک - (ع - ۱) (ص) (۱) (۲) (۳) (۴) (۵) (۶) (۷) (۸) (۹) (۱۰) (۱۱) (۱۲) (۱۳) (۱۴) (۱۵) (۱۶) (۱۷) (۱۸) (۱۹) (۲۰) (۲۱) (۲۲) (۲۳) (۲۴) (۲۵) (۲۶) (۲۷) (۲۸) (۲۹) (۳۰) (۳۱) (۳۲) (۳۳) (۳۴) (۳۵) (۳۶) (۳۷) (۳۸) (۳۹) (۴۰) (۴۱) (۴۲) (۴۳) (۴۴) (۴۵) (۴۶) (۴۷) (۴۸) (۴۹) (۵۰) (۵۱) (۵۲) (۵۳) (۵۴) (۵۵) (۵۶) (۵۷) (۵۸) (۵۹) (۶۰) (۶۱) (۶۲) (۶۳) (۶۴) (۶۵) (۶۶) (۶۷) (۶۸) (۶۹) (۷۰) (۷۱) (۷۲) (۷۳) (۷۴) (۷۵) (۷۶) (۷۷) (۷۸) (۷۹) (۸۰) (۸۱) (۸۲) (۸۳) (۸۴) (۸۵) (۸۶) (۸۷) (۸۸) (۸۹) (۹۰) (۹۱) (۹۲) (۹۳) (۹۴) (۹۵) (۹۶) (۹۷) (۹۸) (۹۹) (۱۰۰)
 طوبی - (ط - و) (با) (ع - ۱) (ذ) (۱) بہشت کا ایک درخت (۲) نہایت خوشبودار
 (۳) اچھا خوشگوار (۴) نفیس - جائز (۵) نہایت پاک (۶) خوشخبری۔
 طوبی قامت - (ع - ۱) (ص) (۱) (۲) (۳) (۴) (۵) (۶) (۷) (۸) (۹) (۱۰) (۱۱) (۱۲) (۱۳) (۱۴) (۱۵) (۱۶) (۱۷) (۱۸) (۱۹) (۲۰) (۲۱) (۲۲) (۲۳) (۲۴) (۲۵) (۲۶) (۲۷) (۲۸) (۲۹) (۳۰) (۳۱) (۳۲) (۳۳) (۳۴) (۳۵) (۳۶) (۳۷) (۳۸) (۳۹) (۴۰) (۴۱) (۴۲) (۴۳) (۴۴) (۴۵) (۴۶) (۴۷) (۴۸) (۴۹) (۵۰) (۵۱) (۵۲) (۵۳) (۵۴) (۵۵) (۵۶) (۵۷) (۵۸) (۵۹) (۶۰) (۶۱) (۶۲) (۶۳) (۶۴) (۶۵) (۶۶) (۶۷) (۶۸) (۶۹) (۷۰) (۷۱) (۷۲) (۷۳) (۷۴) (۷۵) (۷۶) (۷۷) (۷۸) (۷۹) (۸۰) (۸۱) (۸۲) (۸۳) (۸۴) (۸۵) (۸۶) (۸۷) (۸۸) (۸۹) (۹۰) (۹۱) (۹۲) (۹۳) (۹۴) (۹۵) (۹۶) (۹۷) (۹۸) (۹۹) (۱۰۰)
 قامت رکنا یعنی مشوق۔

طور - (ع - ۱) (ذ) (۱) حالت (۲) طرز - ڈھنگ - طرح - طریقہ (۳) یک بار۔
 (۴) حد (۵) بنیاد (۶) صرف (۷) قسم - نوع - جمع - احوار۔
 طور بے طور ہونا - (۱) عاودہ) (۲) حالت خراب ہونا (۳) قریب لڑگ
 ہونا (۴) گڑبڑ ہونا۔

طور طریق - (ع - ۱) (ذ) (۱) رنگ ڈھنگ - چال چلن - رویہ - برتاؤ۔
 طور - (ع - ۱) (ذ) (۱) کوہ سینا - جزیرہ نمائے سینا میں ایک پہاڑیوں
 حضرت موسیٰ پر تجلی الہی کا ظہور ہوا تھا۔
 طوس - (ع - ۱) (ذ) (۱) ایک قسم کا نہایت ظالم اونٹنی کپڑا (۲) خراسان کا ایک شہر۔
 طوسی - (ط - و) (سی) (ف) (ص) (۱) طوس کا پہننے والا (۲) کزوفزی یا بیگنی رنگ۔
 طوطا - (ط - و) (۱) (ذ) (۱) ایک خوبصورت بہرہ مند بھگنا (۲) کزوفزی یا بیگنی رنگ۔
 طوطا پشم - (ف - ۱) (ص) (۱) بے وفا - بے مروت - نا آشنا۔
 طوطا پشمی - (ن - ۱) (ص) (۱) بے وفائی کرنا - بد لحاظ ہونا۔
 طوطک - (طوط - ک) (ف) (ذ) (۱) (۲) (۳) (۴) (۵) (۶) (۷) (۸) (۹) (۱۰) (۱۱) (۱۲) (۱۳) (۱۴) (۱۵) (۱۶) (۱۷) (۱۸) (۱۹) (۲۰) (۲۱) (۲۲) (۲۳) (۲۴) (۲۵) (۲۶) (۲۷) (۲۸) (۲۹) (۳۰) (۳۱) (۳۲) (۳۳) (۳۴) (۳۵) (۳۶) (۳۷) (۳۸) (۳۹) (۴۰) (۴۱) (۴۲) (۴۳) (۴۴) (۴۵) (۴۶) (۴۷) (۴۸) (۴۹) (۵۰) (۵۱) (۵۲) (۵۳) (۵۴) (۵۵) (۵۶) (۵۷) (۵۸) (۵۹) (۶۰) (۶۱) (۶۲) (۶۳) (۶۴) (۶۵) (۶۶) (۶۷) (۶۸) (۶۹) (۷۰) (۷۱) (۷۲) (۷۳) (۷۴) (۷۵) (۷۶) (۷۷) (۷۸) (۷۹) (۸۰) (۸۱) (۸۲) (۸۳) (۸۴) (۸۵) (۸۶) (۸۷) (۸۸) (۸۹) (۹۰) (۹۱) (۹۲) (۹۳) (۹۴) (۹۵) (۹۶) (۹۷) (۹۸) (۹۹) (۱۰۰)

طویطے کی بلا بندر کے سمر (۱۰۔ مثل) جب کئی آدمیوں کی آفت ایک کے سر پر پڑے (۲۰) قصور کسی کا سزا کوئی پائے۔

طوفانی جہاز۔ وہ جہاز جو طوفان میں چنسا ہو۔
طوفانی دورہ۔ (ع۔ ف۔ ۱۔ مذ) وسیع علاقہ کا تیزی سے دورہ کرنا۔
طوق۔ (ع۔ ۱۔ مذ) (۱) گونبد۔ لگے کا ایک زیور ہنسلی۔ بار۔ زیور۔ حلقہ۔
طوق بڑھانا۔ (۱۰۔ عاودہ) منت کا طوق پتے کے گلے سے اتار کر منت ادا کرنا۔
طوق زنجیر۔ (ع۔ ۱۔ مذ) ہتھکڑیاں۔ پیریاں۔
طوق غلامی۔ (ع۔ ۱۔ مذ) طاعت کا بجا۔ وہ طوق جو پرانے زمانے میں غلاموں کے گلے میں ڈالا جاتا تھا۔
طوق غلامی گلے میں ڈالنا۔ (۱۰۔ عاودہ) طاعت کرنا۔
طوق لعنت بگردن اٹلیس۔ (ف۔ مثل) لعنت کا طوق شیطان کی گردن میں۔ بڑے آدمی کو ہی بڑائی کا الزام لگتا ہے۔
طوق منت۔ (ع۔ ۱۔ مذ) منت کی ہنسلی۔

ط — ہ

ظہ۔ (ط۔ ۱۰) (ع۔ ۱۰۔ مٹ) (۱) قرآن مجید کی ایک سورت کا نام (۲) پیغمبر اسلام کا ایک اسم گرامی۔

ظہارت۔ (ط۔ ۱۰۔ رت) (ع۔ ۱۰۔ مٹ) (۱) صفائی۔ پاک۔ پاکیزگی (۲) وضو۔ استنجاء۔ آبدست (۳) مثل کرنا۔

ظہارت خانہ۔ (ع۔ ف۔ ۱۰۔ مٹ) نہانے اور وضو کرنے کی جگہ۔
ظہارت کرنا۔ (۱۰۔ عاودہ) آبدست لینا۔ وضو کرنا۔

ظہر۔ (ع۔ ۱۔ مذ) (۱) حیض سے پاک ہونا (۲) ودعت جس میں حیض نہ ہو۔

ظہران۔ (ع۔ صفت) پاک۔ صاف۔ ستر۔
ظہور۔ (ط۔ ۱۰۔ ہور) (ع۔ صفت) (۱) انتہائی پاک (۲) پاک کرنے والا۔

ظول۔ (ع۔ ۱۔ مذ) (۱) لبائی (۲) درازی (۳) دسعت۔ پھیلاؤ (۴) طویل۔ بڑا۔
ظول اہل۔ (ع۔ ۱۔ مذ) (۱) حوص کی درازی (۲) انید کی طوالت۔
ظول بلد۔ طول البلد۔ کسی مقام کا فاصلہ جو نصف النہار کے خطوط سے معلوم کیا جائے۔
ظول پکڑنا۔ (۱۰۔ عاودہ) بڑھ جانا کسی معاملے کا لبا ہو جانا۔
ظول ویٹا۔ (۱۰۔ عاودہ) (۱) کسی معاملے کو بڑھانا (۲) بات کو لبا کرنا (۳) زیادہ بولنا۔

ط — ی

طے۔ (ع۔ ۱۔ مذ) (۱) لپیٹ۔ لپیٹنا (۲) قطع مسافت (۳) پرانا کرنا۔ تمام کرنا۔ انجام کو پہنچانا۔ ختم کرنا (۴) فیصلہ۔ بے باقی (۵) کوتاہ کرنا۔ مختصر کرنا۔

(۶) عرب کا ایک قبیلہ جس میں حاتم طائی پیدا ہوئے۔ عربی میں بشندید یا ہے۔ فارسی دالوں نے تخفیف یا تنہ استعمال کیا ہے۔

طے ارض۔ (ع۔ ۱۔ مذ) فاصلے کرنا۔ سفر ختم کرنا۔
طے کا روزہ۔ (۱۰۔ مذ) وہ روزہ جو تیسرے روز اظفار کیا جائے۔

طے کرنا۔ (ع۔ مٹ) (۱) لپیٹنا۔ تکرار کرنا (۲) قطع مسافت کرنا (۳) فیصلہ کرنا۔ بے باقی کرنا (۴) ختم کرنا (۵) محلے کو رونق دینا کرنا۔

طے مراحل۔ (ع۔ ۱۔ مذ) سفر کے مرحلوں پر سے گزرتا۔
طیار۔ (ط۔ ۱۰۔ یار) (ع۔ صفت) (۱) اڑنے والا۔ تیز دوڑنے والا۔ تیز رو۔

(۲) حضرت جعفر طیارؓ لیل طالب کا لقب (۳) پردوں والا جانور۔
طیارہ۔ (ط۔ ۱۰۔ یار) (ع۔ ۱۰۔ مذ) ہوائی جہاز۔

طیارہ۔ (ط۔ ۱۰۔ یار) (ع۔ ۱۰۔ مذ) ہوائی جہاز۔
طیارہ۔ (ط۔ ۱۰۔ یار) (ع۔ ۱۰۔ مذ) ہوائی جہاز۔

طیب۔ (ع۔ ۱۔ مٹ) (۱) لال اور پھولوں کا بہت بڑا بیجہ۔
طیب النفس۔ (ع۔ صفت) پاک نفس۔ مقدس۔

طیب خاطر۔ (ع۔ ۱۰۔ مٹ) خوشی۔ رضامندی۔ خوشنودی مزاج۔
طیب۔ (ط۔ ۱۰۔ یار) (ع۔ صفت) (۱) اچھا عمدہ۔ نفیس (۲) پاک۔ حلال۔ جائز (۳) لذت۔ خوش گوشت (۴) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صاحب زادے کا نام۔

طیب۔ (ع۔ ۱۔ مذ) (۱) لبائی (۲) درازی (۳) دسعت۔ پھیلاؤ (۴) طویل۔ بڑا۔
طویل۔ (ع۔ ۱۔ مذ) (۱) لبائی (۲) درازی (۳) دسعت۔ پھیلاؤ (۴) طویل۔ بڑا۔
طویل اہل۔ (ع۔ ۱۔ مذ) (۱) حوص کی درازی (۲) انید کی طوالت۔
طویل بلد۔ طول البلد۔ کسی مقام کا فاصلہ جو نصف النہار کے خطوط سے معلوم کیا جائے۔
طویل پکڑنا۔ (۱۰۔ عاودہ) بڑھ جانا کسی معاملے کا لبا ہو جانا۔
طویل ویٹا۔ (۱۰۔ عاودہ) (۱) کسی معاملے کو بڑھانا (۲) بات کو لبا کرنا (۳) زیادہ بولنا۔

طویل۔ (ع۔ ۱۔ مذ) (۱) لبائی (۲) درازی (۳) دسعت۔ پھیلاؤ (۴) طویل۔ بڑا۔
طویل اہل۔ (ع۔ ۱۔ مذ) (۱) حوص کی درازی (۲) انید کی طوالت۔
طویل بلد۔ طول البلد۔ کسی مقام کا فاصلہ جو نصف النہار کے خطوط سے معلوم کیا جائے۔
طویل پکڑنا۔ (۱۰۔ عاودہ) بڑھ جانا کسی معاملے کا لبا ہو جانا۔
طویل ویٹا۔ (۱۰۔ عاودہ) (۱) کسی معاملے کو بڑھانا (۲) بات کو لبا کرنا (۳) زیادہ بولنا۔

طویل۔ (ع۔ ۱۔ مذ) (۱) لبائی (۲) درازی (۳) دسعت۔ پھیلاؤ (۴) طویل۔ بڑا۔
طویل اہل۔ (ع۔ ۱۔ مذ) (۱) حوص کی درازی (۲) انید کی طوالت۔
طویل بلد۔ طول البلد۔ کسی مقام کا فاصلہ جو نصف النہار کے خطوط سے معلوم کیا جائے۔
طویل پکڑنا۔ (۱۰۔ عاودہ) بڑھ جانا کسی معاملے کا لبا ہو جانا۔
طویل ویٹا۔ (۱۰۔ عاودہ) (۱) کسی معاملے کو بڑھانا (۲) بات کو لبا کرنا (۳) زیادہ بولنا۔

طویل۔ (ع۔ ۱۔ مذ) (۱) لبائی (۲) درازی (۳) دسعت۔ پھیلاؤ (۴) طویل۔ بڑا۔
طویل اہل۔ (ع۔ ۱۔ مذ) (۱) حوص کی درازی (۲) انید کی طوالت۔
طویل بلد۔ طول البلد۔ کسی مقام کا فاصلہ جو نصف النہار کے خطوط سے معلوم کیا جائے۔
طویل پکڑنا۔ (۱۰۔ عاودہ) بڑھ جانا کسی معاملے کا لبا ہو جانا۔
طویل ویٹا۔ (۱۰۔ عاودہ) (۱) کسی معاملے کو بڑھانا (۲) بات کو لبا کرنا (۳) زیادہ بولنا۔

طویل۔ (ع۔ ۱۔ مذ) (۱) لبائی (۲) درازی (۳) دسعت۔ پھیلاؤ (۴) طویل۔ بڑا۔
طویل اہل۔ (ع۔ ۱۔ مذ) (۱) حوص کی درازی (۲) انید کی طوالت۔
طویل بلد۔ طول البلد۔ کسی مقام کا فاصلہ جو نصف النہار کے خطوط سے معلوم کیا جائے۔
طویل پکڑنا۔ (۱۰۔ عاودہ) بڑھ جانا کسی معاملے کا لبا ہو جانا۔
طویل ویٹا۔ (۱۰۔ عاودہ) (۱) کسی معاملے کو بڑھانا (۲) بات کو لبا کرنا (۳) زیادہ بولنا۔

طویل۔ (ع۔ ۱۔ مذ) (۱) لبائی (۲) درازی (۳) دسعت۔ پھیلاؤ (۴) طویل۔ بڑا۔
طویل اہل۔ (ع۔ ۱۔ مذ) (۱) حوص کی درازی (۲) انید کی طوالت۔
طویل بلد۔ طول البلد۔ کسی مقام کا فاصلہ جو نصف النہار کے خطوط سے معلوم کیا جائے۔
طویل پکڑنا۔ (۱۰۔ عاودہ) بڑھ جانا کسی معاملے کا لبا ہو جانا۔
طویل ویٹا۔ (۱۰۔ عاودہ) (۱) کسی معاملے کو بڑھانا (۲) بات کو لبا کرنا (۳) زیادہ بولنا۔

طویل۔ (ع۔ ۱۔ مذ) (۱) لبائی (۲) درازی (۳) دسعت۔ پھیلاؤ (۴) طویل۔ بڑا۔
طویل اہل۔ (ع۔ ۱۔ مذ) (۱) حوص کی درازی (۲) انید کی طوالت۔
طویل بلد۔ طول البلد۔ کسی مقام کا فاصلہ جو نصف النہار کے خطوط سے معلوم کیا جائے۔
طویل پکڑنا۔ (۱۰۔ عاودہ) بڑھ جانا کسی معاملے کا لبا ہو جانا۔
طویل ویٹا۔ (۱۰۔ عاودہ) (۱) کسی معاملے کو بڑھانا (۲) بات کو لبا کرنا (۳) زیادہ بولنا۔

طویل۔ (ع۔ ۱۔ مذ) (۱) لبائی (۲) درازی (۳) دسعت۔ پھیلاؤ (۴) طویل۔ بڑا۔
طویل اہل۔ (ع۔ ۱۔ مذ) (۱) حوص کی درازی (۲) انید کی طوالت۔
طویل بلد۔ طول البلد۔ کسی مقام کا فاصلہ جو نصف النہار کے خطوط سے معلوم کیا جائے۔
طویل پکڑنا۔ (۱۰۔ عاودہ) بڑھ جانا کسی معاملے کا لبا ہو جانا۔
طویل ویٹا۔ (۱۰۔ عاودہ) (۱) کسی معاملے کو بڑھانا (۲) بات کو لبا کرنا (۳) زیادہ بولنا۔

طویل۔ (ع۔ ۱۔ مذ) (۱) لبائی (۲) درازی (۳) دسعت۔ پھیلاؤ (۴) طویل۔ بڑا۔
طویل اہل۔ (ع۔ ۱۔ مذ) (۱) حوص کی درازی (۲) انید کی طوالت۔
طویل بلد۔ طول البلد۔ کسی مقام کا فاصلہ جو نصف النہار کے خطوط سے معلوم کیا جائے۔
طویل پکڑنا۔ (۱۰۔ عاودہ) بڑھ جانا کسی معاملے کا لبا ہو جانا۔
طویل ویٹا۔ (۱۰۔ عاودہ) (۱) کسی معاملے کو بڑھانا (۲) بات کو لبا کرنا (۳) زیادہ بولنا۔

طویل۔ (ع۔ ۱۔ مذ) (۱) لبائی (۲) درازی (۳) دسعت۔ پھیلاؤ (۴) طویل۔ بڑا۔
طویل اہل۔ (ع۔ ۱۔ مذ) (۱) حوص کی درازی (۲) انید کی طوالت۔
طویل بلد۔ طول البلد۔ کسی مقام کا فاصلہ جو نصف النہار کے خطوط سے معلوم کیا جائے۔
طویل پکڑنا۔ (۱۰۔ عاودہ) بڑھ جانا کسی معاملے کا لبا ہو جانا۔
طویل ویٹا۔ (۱۰۔ عاودہ) (۱) کسی معاملے کو بڑھانا (۲) بات کو لبا کرنا (۳) زیادہ بولنا۔

طویل۔ (ع۔ ۱۔ مذ) (۱) لبائی (۲) درازی (۳) دسعت۔ پھیلاؤ (۴) طویل۔ بڑا۔
طویل اہل۔ (ع۔ ۱۔ مذ) (۱) حوص کی درازی (۲) انید کی طوالت۔
طویل بلد۔ طول البلد۔ کسی مقام کا فاصلہ جو نصف النہار کے خطوط سے معلوم کیا جائے۔
طویل پکڑنا۔ (۱۰۔ عاودہ) بڑھ جانا کسی معاملے کا لبا ہو جانا۔
طویل ویٹا۔ (۱۰۔ عاودہ) (۱) کسی معاملے کو بڑھانا (۲) بات کو لبا کرنا (۳) زیادہ بولنا۔

طویل۔ (ع۔ ۱۔ مذ) (۱) لبائی (۲) درازی (۳) دسعت۔ پھیلاؤ (۴) طویل۔ بڑا۔
طویل اہل۔ (ع۔ ۱۔ مذ) (۱) حوص کی درازی (۲) انید کی طوالت۔
طویل بلد۔ طول البلد۔ کسی مقام کا فاصلہ جو نصف النہار کے خطوط سے معلوم کیا جائے۔
طویل پکڑنا۔ (۱۰۔ عاودہ) بڑھ جانا کسی معاملے کا لبا ہو جانا۔
طویل ویٹا۔ (۱۰۔ عاودہ) (۱) کسی معاملے کو بڑھانا (۲) بات کو لبا کرنا (۳) زیادہ بولنا۔

طویل۔ (ع۔ ۱۔ مذ) (۱) لبائی (۲) درازی (۳) دسعت۔ پھیلاؤ (۴) طویل۔ بڑا۔
طویل اہل۔ (ع۔ ۱۔ مذ) (۱) حوص کی درازی (۲) انید کی طوالت۔
طویل بلد۔ طول البلد۔ کسی مقام کا فاصلہ جو نصف النہار کے خطوط سے معلوم کیا جائے۔
طویل پکڑنا۔ (۱۰۔ عاودہ) بڑھ جانا کسی معاملے کا لبا ہو جانا۔
طویل ویٹا۔ (۱۰۔ عاودہ) (۱) کسی معاملے کو بڑھانا (۲) بات کو لبا کرنا (۳) زیادہ بولنا۔

طویل۔ (ع۔ ۱۔ مذ) (۱) لبائی (۲) درازی (۳) دسعت۔ پھیلاؤ (۴) طویل۔ بڑا۔
طویل اہل۔ (ع۔ ۱۔ مذ) (۱) حوص کی درازی (۲) انید کی طوالت۔
طویل بلد۔ طول البلد۔ کسی مقام کا فاصلہ جو نصف النہار کے خطوط سے معلوم کیا جائے۔
طویل پکڑنا۔ (۱۰۔ عاودہ) بڑھ جانا کسی معاملے کا لبا ہو جانا۔
طویل ویٹا۔ (۱۰۔ عاودہ) (۱) کسی معاملے کو بڑھانا (۲) بات کو لبا کرنا (۳) زیادہ بولنا۔

طویل۔ (ع۔ ۱۔ مذ) (۱) لبائی (۲) درازی (۳) دسعت۔ پھیلاؤ (۴) طویل۔ بڑا۔
طویل اہل۔ (ع۔ ۱۔ مذ) (۱) حوص کی درازی (۲) انید کی طوالت۔
طویل بلد۔ طول البلد۔ کسی مقام کا فاصلہ جو نصف النہار کے خطوط سے معلوم کیا جائے۔
طویل پکڑنا۔ (۱۰۔ عاودہ) بڑھ جانا کسی معاملے کا لبا ہو جانا۔
طویل ویٹا۔ (۱۰۔ عاودہ) (۱) کسی معاملے کو بڑھانا (۲) بات کو لبا کرنا (۳) زیادہ بولنا۔

طویل۔ (ع۔ ۱۔ مذ) (۱) لبائی (۲) درازی (۳) دسعت۔ پھیلاؤ (۴) طویل۔ بڑا۔
طویل اہل۔ (ع۔ ۱۔ مذ) (۱) حوص کی درازی (۲) انید کی طوالت۔
طویل بلد۔ طول البلد۔ کسی مقام کا فاصلہ جو نصف النہار کے خطوط سے معلوم کیا جائے۔
طویل پکڑنا۔ (۱۰۔ عاودہ) بڑھ جانا کسی معاملے کا لبا ہو جانا۔
طویل ویٹا۔ (۱۰۔ عاودہ) (۱) کسی معاملے کو بڑھانا (۲) بات کو لبا کرنا (۳) زیادہ بولنا۔

طیف - (ع - ا - مذ) شیشے کا مستطیل ٹکڑا جو روشنی کی شعاعوں کو مختلف رنگوں میں ظاہر کرتا ہے۔
 طیلساں - (ط - ل - ساں) (ع - ا - مذ) (۱) چڑھی کا شملہ (۲) چادر جو عرب کندھوں پر ڈالتے ہیں۔
 طین - (ع - ا - مت) مٹی۔
 طینت - (ط - ن - ت) (ع - ا - مت) (۱) مرشت۔ طبیعت (۲) خور عادت (۳) خلقت۔ پیدائش (۴) اصل - نسلت۔
 طیور - (ط - ی - و) (ع - ا - مذ) طیر کی جمع۔ پرندے۔ چڑیاں۔
 طیوری - (ط - ی - و) (ع - ا - مذ) (۱) چڑیاں (۲) طیور سے منسوب۔ پرندوں کا۔

طیبات - (ط - ی - ع - با ت) (ع - ا - مت) (۱) پاک خورتیں (۲) خوشیاں۔
 طیبہ - (ط - ی - ع) (ع - ا - مذ) مدینہ منورہ کا ایک نام۔
 طیبہ - (ط - ی - ع) (ع - ص - ف) پاک۔ پوتر۔ مدینہ منورہ کو بھی کہتے ہیں۔
 طیر - (ع - ا - مذ) پرند۔ چڑیا۔ پھیرو۔
 طیران - (ع - ا - مت) اُڑان۔ پرواز۔
 طیران گاہ - (ع - ف - ا - مت) ہوائی اڈہ۔ مقام پرواز۔
 طیش - (ع - ا - مذ) (۱) غصہ۔ غضب۔ جوش (۲) بے عقلی۔ سخت۔ سبکی۔
 طیش دلانا - (ا - عا و) غصہ دلانا۔ بھڑکانا۔ برا فروختہ کرنا۔
 طیش کھانا - (ا - عا و) غصہ برداشت کرنا۔ غصہ کرنا۔
 طیش میں آنا - (ا - عا و) غصے میں آنا۔ جھجھلانا۔ غضب ناک ہونا۔

ظ

ظ (ظو۔ اے) (رع۔ ا۔ مٹ) اردو کا تیشواں۔ فارسی کا بیسواں اور عربی کا سترھواں حرف۔ حساب الجد میں اس کے فوسد مدخضض کیے گئے ہیں۔ اس کو ظاہر، بحر یا ظا و منقوط بھی کہتے ہیں۔ عربی زبان کا مخصوص لفظ ہے۔ اس کی آواز کسی اور زبان میں نہیں۔ یہ شمسی حرف ہے۔

ظ - ا - ظ

ظافر۔ (رع۔ صفت) ناخ۔

ظالم۔ (ظا۔ لم) (رع۔ صفت) (۱) مردم آزار۔ ظلم کرنے والا۔ (۲) جاہل۔ (۳) دل آزار۔ (۴) زبردست۔ (۵) جاہل۔ (۶) وحشی۔ (۷) شریر۔ (۸) شوخ۔ (۹) بے باک۔ (۱۰) سفاک۔ کنیۃ مشوق۔

ظالم الظلم۔ (رع۔ صفت) بڑا ستانے والا۔

ظالم پھول پھلتا نہیں۔ ظالم سرسبز نہیں ہوتا۔ (امتزاج) ظالم اولاد اور مراد سے بے نصیب رہتا ہے۔

ظالم خدا سے ڈر، گومان۔ دماغ بولا جاتا ہے جہاں کوئی بہت جھوٹ بولے یا کسی نے گناہ کو ستائے۔

ظالم کی بیل نہیں بڑھتی۔ (ابن) ظالم کی نسل میں اضافہ نہیں ہوتا۔

ظالم کی داد خدا کے گھر۔ (ابن) ستانے والے کو خدا سزا دیتا ہے۔

ظالم کی رستی ورازا ہے۔ (ابن) ظالم کو بہت ہی بیعت ملتی ہے کہ گناہ کر کے اپنے لیے جہنم کا ایندھن جمع کرے۔

ظالم مظلوم نما۔ (رع۔ ا۔ صفت) (۱) ظاہر میں نرم اور باطن میں سخت۔ (۲) مشوق کی آنکھ۔

ظالموں کا بادشاہ۔ (ابن) بڑا ستانے والا۔

ظالمانہ۔ (ظا۔ ل۔ ما۔ نہ) (رع۔ صفت) (۱) ظلم سے بھرا ہوا۔ (۲) ظالم کے طریقے پر۔ ظالم کی طرح۔

ظالمی۔ (ظا۔ ل۔ می) (رع۔ ا۔ مٹ) ظلم۔ ظلم سے تعلق رکھنے والی چیز۔ ظاہر۔ (ظا۔ ہر) (رع۔ صفت) (۱) آشکار۔ عیاں۔ روشن۔ واضح۔ کھلا ہوا۔

(۲) باطن کا نقیض۔ جمع: ظواہر۔

ظاہر اچھا، باطن بُرا۔ (ابن) دیکھنے میں نیک مگر دل کا بد۔

ظاہر اللہ، باطن اللہ۔ (ابن) اللہ اپنی قدرت سے ہر جگہ موجود ہے۔ ظاہر اور باطن اور۔ (امداد) زبان پر کچھ اور دل میں کچھ اور نفاق۔

قول و فعل کا اعتبار نہیں۔

ظاہر باطن ایک سا ہونا۔ (امداد) دل اور زبان کا موافق ہونا۔

ظاہر بنائے رکھنا۔ (۱۱) محاورہ) اپنے ظاہر کو آراستہ رکھنا۔

ظاہر ہیں۔ ظاہر پرست۔ (رع۔ صفت) ظاہر دار۔ ظاہری حالت پر نظر رکھنے والا۔

ظاہر پر جاننا۔ (۱۱) محاورہ) ظاہری حالت دیکھ کر دھوکا کھانا۔

ظاہر پیر۔ (رع۔ ف۔ ا۔ مذ) خاکروہوں کا مرشد۔

ظاہر دار۔ (رع۔ ف۔ صفت) دکھا دے کا برتاؤ کرنے والا۔ منافق۔ مکار۔

ظاہر داری۔ (رع۔ ف۔ ا۔ مٹ) دکھا دا۔ نمائش۔ تکلف۔

ظاہر داری برتنا۔ (۱۱) محاورہ) دکھا دے کی باتیں کرنا۔ تکلف سے پیش آنا۔

ظاہر رجن کا۔ باطن شیطان کا۔ (۱۱) مثل) اس شخص کے متعلق بولتے ہیں جس کا ظاہر اچھا اور باطن بُرا ہو۔

ظاہر ظہور۔ (رع) متعلق فعل، ظاہر طور سے۔ ظاہر میں کھلم کھلا۔ صاف صاف۔ ظاہر کرنا۔ (صن. مرکب) (۱) اٹھا کرنا۔ (۲) عید کھولنا۔ (۳) مشہر کرنا۔ (۴) تشریح کرنا۔ وضاحت کرنا۔

ظاہر کا نرم باطن کا سخت۔ (۱۱) مثل) دیکھنے میں دل موم ہے۔ مگر تنگ دل ہے۔

ظاہر کی آنکھیں اور ہیں، باطن کی آنکھیں اور۔ (۱۱) مثل) دل کی سوجھ بوجھ ان آنکھوں سے خدا ہے۔

ظاہر میں۔ (۱۱) تابع فعل) ظاہرہ۔ کھلے طور پر۔

ظاہر و باطن۔ (رع۔ ا۔ مذ) حقیقی کردار اور اس کا مظاہرہ اصل حقیقت اور ظاہری صورت۔

ظاہر ہونا۔ (۱۱) محاورہ) کھلنا۔ افشا ہونا۔ نمودار ہونا۔ مشہور ہونا۔

ظاہر سے۔ (۱۱) محاورہ) یہ بات پرشیدہ نہیں ہے سب جانتے ہیں۔

ظاہر ا۔ ظاہر ا۔ (ظا۔ ہ۔ را) (ظا۔ ہ۔ رن) (رع) تابع فعل) ظاہر دیکھنے میں۔ جہاں تک خیال کریں۔

ظاہر ہی۔ (ظا۔ ہ۔ ری) (رع) صفت) (۱) دکھا دے کا (۲) بدیہی، کھلا ہوا۔

ظ - ا - ظ

ظرافت۔ (ظ۔ را۔ فنت) (رع۔ ا۔ مٹ) (۱) خوش طبعی۔ دل لگی۔ مذاق تیز۔ ٹھٹھا

ظرافت آمیز۔ (رع۔ ف۔ صفت) ظرافت ملی ہوئی۔ دل لگی کی بات،

ظرافت پسند۔ (رع۔ ف۔ صفت) دل لگی پسند کرنے والا۔

ظرافت کا پتلا۔ (۱) صفت) بڑا ظریف،

ظرافت کا پہلو۔ (۱) مذ) دل لگی کا انداز۔

ظرافت کی پوٹ۔ (۱) مٹ) بہت ظریف۔ مسخرا۔

ظرافت۔ (ظ۔ را۔ فنت) (رع) تابع فعل) ہنسی سے۔ مزاح سے۔ دل لگی سے

ظرف - (ر-ع-ا) مذ (۱) دانائی - زیرک (۲) برتن - بھانڈا - ٹانڈی (۳) صرف و نحو میں وہ اسم ذات جو جگہ یا وقت کے معنوں پر دلالت کرے (۴) موصل - سہانی - جمع : ظُروف۔
ظرف آفتاب - (ر-ع-ف-ا) مذ شراب کا پیالہ - گلاس۔
ظرف پیدا کرنا - (ا) محاورہ (موصل پیدا کرنا)۔
ظرف دیکھنا - (ا) محاورہ (موصل دیکھنا)۔
ظرف زمان - (ر-ع-ا) مذ صرف و نحو میں وہ اسم جس میں زمانہ یا وقت پایا جائے۔ جیسے صبح و شام۔
ظرف عالی ہونا - (ا) محاورہ (بڑا موصل ہونا)۔
ظرف لبریز ہونا - (ا) محاورہ (مگر آخر ہونا)۔
ظرف مکان - (ر-ع-ا) مذ وہ اسم جس میں مکانت پائی جائے۔ اسم مکان جیسے یہاں وہاں۔
ظُرُوف - (ظ-ر-و-ف) (ر-ع-ا) مذ ظرف کی جمع - برتن۔
ظریف - (ظ-ر-ی-ف) (ر-ع-ا) مذ صفت [لطیف نگ - بذلہ سخ - خوش طبع - ظریف طبع (مزاج) - (ر-ع-صفت) جس کے مزاج میں ظرافت کا مادہ زیادہ ہو۔
ظریفانہ - (ظ-ر-ی-ن-ا-نہ) (ف-صفت) (۱) ظرافت کا (۲) ظریف کی طرح۔

ظ - ف - ن

ظفر - (ظ-ف-ن) (ر-ع-ا) (۱) مٹا (۲) فتح مندی - نصرت - فتح - جیت (۲) کشائش - خوش نشیبی - کامیابی۔
ظفر آیات (آیہ - اثر - پیکر - موج) - (ر-ع-ف-ن) (صفت) جو اکثر فتح پاتا ہے۔
ظفر پانا - (مصن - مرکب) کامیابی حاصل کرنا - فتح پانا۔
ظفر تکیہ - (ر-ع-ف-ا) مذ (ظفروں کی سہارا لینے کی عملی (۲) لوسہ کی ڈکڑا سلاخ (۳) خنجر - لمبی اور پتلی پھری۔
ظفر جنگ - (ر-ع-ف-ا) مذ ایک فوجی خطاب۔
ظفر قرین - (ر-ع-ف-ن) (صفت) جس کے حملے کے ساتھ فتح قریب ہو۔
ظفر مراد - ظفر موج - ظفر نشان - ظفر نصیب - ظفر یاب - (ر-ع-ف-صفت) فاتح - فتح مند۔
ظفر یابی - (ر-ع-ف-ا) (مٹ) فتح پانا۔
ظفرہ - (ر-ع-ا) (مٹ) آنکھ کی ایک بیماری - ناخونہ۔

ظ - ل

ظلم - (ر-ع-ل-ا) مذ سایہ - پھاؤں - پناہ - سورج کو چھٹا لینے والا۔
ظلم اللہ (الہی) - (ر-ع-ا) (مذ) (۱) خدا کا سایہ (۲) تائب خدا (۳) بادشاہ۔

ظلم - (ر-ع-ا) (مذ) حمایت کی پناہ۔
ظلم ظلیل - (ر-ع-ا) (مذ) گھنسا سایہ - ہمیشہ رہنے والا سایہ۔
ظلم عنایت - (ر-ع-ا) (مذ) ہیرانی کی پناہ۔
ظلم گستر - (ر-ع-صفت) سایہ دینے والا - پناہ دینے والا - حامی۔
ظلم ہما - (ر-ع-ا) (مذ) ہما کا سایہ - کہتے ہیں جس پر ہما کا سایہ پڑے وہ بادشاہ بن جاتا ہے۔
ظلام - (ر-ع-ا) (مذ) رات کی تاریکی - اندھیرا۔
ظلام - (ر-ع-ا) (مذ) بہت بڑا ظلم - بڑا بے انصاف۔
ظلمت - (ر-ع-ا) (مذ) (مرد) کا سایہ۔
ظلمت - (ر-ع-ا) (مذ) (عورت) کا سایہ۔
ظلمت - (ر-ع-ا) (مذ) (مردوں) کا سایہ۔
ظلمت - (ر-ع-ا) (مذ) (اندھیرا) تاریکی۔
ظلمت - (ر-ع-ا) (مذ) (۱) اندھیرا (۲) ستم - بے انصافی - بے رحمی (۳) پاپ۔
ظلمت - (ر-ع-ا) (مذ) (۱) زبردستی - زور - زیادتی۔
ظلمت اٹھانا - (ا) محاورہ (ظلم تھنا - زیادتی برداشت کرنا)۔
ظلم پرور - (ر-ع-ف-ن) (صفت) ظلم کو رونق دینے والا۔
ظلم پیشہ - (ر-ع-ف-ن) (صفت) جو ظلم کا عادی ہو۔
ظلم توڑنا - (ا) محاورہ (سختی کرنا - آفت ڈھانا)۔
ظلم کو دست - (ر-ع-ف-ن) (صفت) ستم پیشہ - ظلم کو پسند کرنے والا۔
ظلم ڈھانا - (ا) محاورہ (ستام کرنا - سختی کرنا) (۲) کوئی عجیب کام کرنا۔
ظلم کا کام کرنا۔

ظلم رسیدہ - (ر-ع-ف-ن) (صفت) مظلوم - وہ شخص جس پر جبر ہوا ہو۔
ظلم سے - (ا) محاورہ (۱) اندھیرے (۲) غضب ہے۔
ظلمات - (ظ-ل-م-ات) (ر-ع-ا) (مٹ) ظلمت کی جمع - (۱) تاریکیاں (اندھیرے) پاتال - وہ تاریکی جس میں آب حیات کا چشمہ خیال کیا گیا ہے (۲) بحر اقیانوس (اُردو میں مفرد مستعمل ہے)۔
ظلماتی - (ظ-ل-م-ی) (ما-ر-ی) (ر-ع) (وصف) شفاف نہ ہو (۲) تاریک۔
ظلمت - (ظ-ل-م-ت) (ر-ع-ا) (مٹ) تاریکی - اندھیرا - سیاہی - جمع : ظلمات۔
ظلمت خانہ (کدہ) - (ر-ع-ف-ا) (مذ) تاریک مقام - ڈونیا۔
ظلمت شب - (ر-ع-ف-ا) (مٹ) رات کی تاریکی۔
ظلمت کا درس پھیلانا - (ا) محاورہ (اندھیرا پھیلانا - سب طرف اندھیرا ہونا)۔
ظلمت کفر - (ر-ع-ا) (مذ) کفر کا اندھیرا (۲) کفر کا ظلمت سے استعارہ کرتے ہیں ظلمت۔ (ظ-ل-م-ی) (ا) (مٹ) ظلم - ستم - شمار - بے رحم - سنگ دل - سخت - مجاہد - ظلم - (ظ-ل-م) (ر-ع-صفت) نہایت ظالم۔
ظلم و جہول - (ر-ع-صفت) ستم ظالم اور جاہل کنایتہ انسان۔
ظلمتی نبی - (ر-ع-ا) (مذ) وہ نبی جو خود صاحب شریعت نہ ہو بلکہ کسی دوسرے نبی کی شریعت کا تابع ہو (اسلام میں ایسا کوئی قصور نہیں)۔

ظ - ن

ظہار - (ظ - ہار) (ع - ا - مذ) (۱) ایک قسم کی طلاق - فقہ کی اصطلاح میں مرد کا اپنی بیوی کو مال یا بہن یا ان عورتوں سے تشبیہ دینا جو شرعاً اس پر حرام ہیں (۲) ہم پشت ہونا -
ظہر - (ع - ا - مذ) (۱) زوال کا وقت - تیسرا پہر - تیسرے پہر کی نماز (نماز کے معنی میں مؤنث ہے) -
ظہر - (ع - ا - مٹ) پیٹھ - پشت -

ظہرانہ - (ع - ف - ا - مذ) دو پہر کا کھانا (انگ) (Lunch)
ظہر متک - ظہر سمن - (ع - ف - ا - مذ) متک کی پشت پر سمن کی پشت پر

ظہری - (ظہ - ری) (ع - صفت) پشت پر رکھا ہوا - پشت کا -
ظہری تحریر - وہ تحریر جو سمن، دارنظ و غیرہ کی پشت پر لکھی جائے۔
ظہور - (ظ - ہور) (ع - ا - مذ) انکشاف - اظہار - وقوع - اعلان -

ظہور بنائے دعویٰ - (ع - ا - مذ) عصمت یا بھگڑے کی وجہ پیدا ہونا -
ظہور میں آنا - (ع - ا - محاورہ) ظاہر ہونا - پیش آنا - طلوع ہونا -
ظہور میں لانا - (ع - ا - محاورہ) ظاہر کرنا - پیش کرنا - آشکارا کرنا -

ظہورا - (ظہ - ہور) (ع - ا - مذ) (۱) ظہور - نمود - نمائش - جلوہ (۲) ٹھاٹھ -
ردنچ (۳) بیٹا - اولاد -

ظہیر - (ظہ - ہیر) (ع - صفت) (۱) مددگار (۲) حمایتی - دوست -

ظن - (ع - ا - مذ) (۱) دہم - گمان - شبہ - خیال (۲) تہمت - بہتان (۳) بدگمانی - بدظنی -

ظن المؤمنین خیر - (ع - مثل) ایمان والوں کا گمان نیک ہوتا ہے -
ظن باطل - (ع - ا - مذ) بے اصل گمان -

ظن غالب - (ع - ا - مذ) یقین - غالب رائے - قوی گمان -
ظن فاسد - (ع - ا - مذ) گمان بد - شک و شبہ - بدظنی -

ظنات
ظنی - (ظن - نی) (ع - صفت) (۱) خیالی - قیسی - فاسی (۲) عقل کے قریب - جمع
ظنیہ - (ظن - نی - ی) (ع - صفت) (۱) ظن سے منسوب - گمانی (۲) وہ مقدّم جو قریب بر یقین ہو -

ظ - و

ظواہر - (ظ - وا - ہر) (ع - ا - مذ) (۱) زمین کی بلندیاں (۲) زمین سے اُگی ہوئی چیزیں - نباتات (۳) ظاہری شکلیں (۴) مکہ کے باہر شہر زن ہونے والے قریش (۵) رسی باتوں کو اہمیت دینے والے -

ظ - ہ

ع

(یعنی) (ح۔ ۱۔ مذ) اردو کا چوبیسواں۔ فارسی کا اکیسواں اور عربی کا اٹھارواں حرف۔ حساب ابجد میں اس کے ۴۰ عدد فرض کیے گئے ہیں (۲) دکوہ قرآن کا اشارہ (۳) مصرعہ کی علامت (۴) علیہ السلام کا مخفف (۵) یہ قری حرف ہے اگر اس کے پہلے "ال" آئے گا تو "لام" پڑھا جائے گا جیسے "العمر"۔ شاعری میں مصرعہ کی علامت ہے۔

ع — ۱

عابد - (عابد) (ح۔ ۱۔ صفت) عبادت کرنے والا۔ پجاری۔ پرہیزگار۔ متقی۔
 عاج - (ع۔ ۱۔ مذ) عاجی دانت۔
 عاجز - (عاجز) (ح۔ ۱۔ صفت) (۱) کمزور۔ بے بس۔ مجبور۔ لاچار (۲) منسوب۔
 (۳) شکاماندہ (۴) یایوس۔ ناامید (۵) عزیز۔ مسکین۔
 عاجز آنا۔ (۱) محاورہ تنگ آنا۔ پریشان ہونا۔ یایوس ہونا۔
 عاجزانہ - (عاجز۔ ۱۔ مذ) (۱) تابع فعل [عاجزی سے۔ انکاری سے۔
 عاجزی - (عاجز۔ ۱۔ صفت) (۱) عاجز۔ کمزور۔ مساجت۔
 عاجزی خدا کو بھی پسند ہے۔ (۱) مقولہ: جزو انکار خدا کو بھی پسند ہے۔
 عاجزی کرنا۔ (۱) محاورہ: منت سماجت کرنا۔ بگاڑنا۔ ہاتھ جوڑنا۔
 عاجل - (عاجل) (ح۔ ۱۔ صفت) جلد باز۔
 عاجلہ - (ع۔ ۱۔ صفت) (۱) فوری۔ فوراً (۲) گناہتہ یہ جہاں۔
 عاد - (ع۔ ۱۔ مذ) (۱) وہ عدد جو ایک معلوم عدد کو پورا تقسیم کر دے (۲) ایک
 قوم جس کے پیغمبر حضرت ہودؑ تھے۔
 عاد اعظم - (ع۔ ۱۔ مذ) وہ بڑے سے بڑا عدد جو دو یا دوسے زیادہ اعداد
 کو پورا پورا تقسیم کر دے۔
 عادات - (عادات) (ح۔ ۱۔ صفت) عادت کی جمع۔ خصلت۔ طبیعت۔
 عادت - (عادت) (ح۔ ۱۔ صفت) (۱) تو خصلت۔ سجاؤ (۲) طبیعت۔ عادت
 (۳) طور طریقہ۔ چال چلن (۴) دستور۔ قاعدہ۔ رسم (۵) طلب کسی چیز کی عادت
 عادت پڑنا۔ (۱) محاورہ: سجاؤ پڑنا۔ عادی ہونا۔ ڈھب پڑنا۔
 عادت ڈالنا۔ (۱) محاورہ: کسی بات کا ٹوٹ کر ہونا۔ بڑے کام کا عادی ہونا۔
 عادت طبیعت (فطرت) قائم ہے۔ (۱) مقولہ: پختہ عادت
 فطرت یا طبیعت بن جاتی ہے۔
 عادت مستحکمہ - (عادت) (ح۔ ۱۔ صفت) ہمیشہ کا معمول۔
 عادل - (عادل) (ح۔ ۱۔ صفت) انصاف کرنے والا۔ جس کی گواہی
 شرعاً مستحکم ہو۔
 عادل الرحمن - (عادل) (ح۔ ۱۔ صفت) وہ شخص جس کے پاس دین نامہ رکھ دیا جائے۔
 عادلانہ - (عادل) (ح۔ ۱۔ صفت) انصاف سے۔ انصافاً۔
 عادی - (عادل) (ح۔ ۱۔ صفت) ٹوٹ کر۔ وہ شخص جسے کسی امر کی عادت پڑ گئی ہو۔
 عاد - (عادل) (ح۔ ۱۔ صفت) (۱) غیرت۔ شرم۔ لاج (۲) برائی۔ عیب۔

عار آنا۔ (۱) محاورہ) شرم آنا۔
 عار سمجھنا۔ (۱) محاورہ) عیب خیال کرنا۔ بڑا سمجھنا۔
 عار کرنا۔ (۱) محاورہ) (۱) غیرت کرنا۔ شرم کرنا (۲) عیب سمجھنا۔
 عار ہونا۔ (۱) محاورہ) شرم ہونا۔ عیب ہونا۔
 عار ج۔ (ح۔ ۱۔ صفت) پڑھنے والا۔
 عارض - (عارض) (ح۔ ۱۔ مذ) (۱) رخسارہ۔ گال۔ گونج (۲) فوج کی موجودات
 لینے والا۔ فوج کا میر منشی (۳) صفت [لاحق ہونے والا۔ پیش آنے والا۔
 عارض ہو کر۔ (ح۔ ۱۔ صفت) حور کا گال۔ بدن کے کسی خوبصورت حصے کی
 صفائی کو عارض حور سے استعارہ کرتے ہیں۔
 عارض سیمیں - (ع۔ ۱۔ صفت) چاندی جیسا گال۔ نہایت خوبصورت
 اور گورا چہرہ۔
 عارض ہونا۔ (۱) محاورہ) لاحق ہونا۔ پیدا ہونا۔ نمودار ہونا۔
 عارضہ - (عارضہ) (ح۔ ۱۔ مذ) مرض۔ دکھ۔ بیماری۔ جمع، عوارض۔
 عارضہ لاحق ہونا۔ (۱) محاورہ) بیماری لگنا۔
 عارضی - (عارضی) (ح۔ ۱۔ صفت) (۱) تھوڑی مدت کے لیے۔ وہ شے جو مستقل
 نہ ہو۔ (۲) اتنا قیہ۔ وقتی۔ ہنگامی (۳) نقلی۔
 عارف - (عارف) (ح۔ ۱۔ صفت) (۱) پہچاننے والا (۲) خدا شناس۔ ولی۔
 عارفانہ - (عارفانہ) (ح۔ ۱۔ صفت) (۱) فاضل۔ عارف سے منسوب۔ متعلقانہ
 عارف کی طرح۔
 عاری - (عاری) (ح۔ ۱۔ صفت) (۱) ننگا۔ خالی۔ برہنہ (۲) تنگ۔ قاصر۔ عاجز۔ مجبور۔
 عاری آجانا۔ عاری ہو جانا۔ عاری ہونا۔ (۱) محاورہ) عاجز آجانا۔
 تنگ آجانا۔ تنگ جانا۔
 عاریت - (عاریت) (ح۔ ۱۔ صفت) (۱) قرض۔ اُدھار۔ چند روز کے
 لیے مانگی ہوئی چیز۔ (اردو میں بلا تشدید استعمال ہے)۔
 عاریت مسرا - (عاریت) (ح۔ ۱۔ صفت) دنیا۔
 عاریت نامہ - (عاریت) (ح۔ ۱۔ صفت) (۱) اقرار نامہ جو کسی چیز کے لوٹانے
 کے لیے لکھ دیا جائے۔
 عاریتاً - (عاریتاً) (ح۔ ۱۔ صفت) (۱) قرض کے طور پر۔ مانگ کر۔
 عارض - (عارض) (ح۔ ۱۔ صفت) (۱) تصد کرنے والا۔ ادا کرنے والا۔
 عارضی - (عارضی) (ح۔ ۱۔ صفت) (۱) چاہنے والا۔ محبت کرنے والا۔ طالب۔
 فریفتہ۔ پسند کرنے والا (۲) عارف۔ کامل (۳) بے فکر۔ بے پروا۔ غافل۔
 مدد بخش (۴) وہ بڑھ بھگتندی کی طرح گلے میں ڈالا جاتا ہے۔ جمع، عارضی۔

عاشق صادق - (ف-۱) مذ) سچا عاشق۔ جس کی محبت خود غرضی سے پاک ہو
 عاشق مزاج - (ع-۱) مذ) حسن پرست (۲) دل لگی کرنے والا۔
 عاشق مولوی - (ع-۱) مذ) خدا کا طالب۔ خدا کا عاشق۔
 عاشق و معشوق - (ا-۱) محاورہ (۱) یاد آشنا۔ پریمی (۲) پکے یار۔ گہرے یار
 (۳) لازم و ملزوم (۴) علت اور گھنٹدی (۵) فاعل و مفعول۔
 عاشق ہونا۔ (ا-۱) محاورہ) کسی پر فریفتہ ہونا۔ کسی سے محبت ہونا۔
 عاشقانہ - (ع-۱) صفت) قابلِ فعل عاشقوں کا سا۔ عاشقوں کی طرح۔
 عاشقی - (ع-۱) صفت) عشق و محبت۔ فریبگی۔
 عاشقی خالہ جی کا گھر نہیں - (ا-۱) مثل) عاشق بہت مشکل ہے۔
 عاشور - عاشورا - (ع-۱) محاورہ) عاشورہ (عاشورہ) (۱) (ع-۱) شوہر (۲) (ع-۱) رزق
 (۱) مذ) محرم کی دسویں تاریخ۔ امام حسینؑ کے شہید ہونے کا دن۔
 عاصم - (ع-۱) صفت) بچا ہوا۔ باصمیت۔ محفوظ (۲) بچانے والا۔ نگاہ رکھنے
 والا۔ باز رکھنے والا۔
 عاصمی - (ع-۱) صفت) نافرمان۔ گنہگار۔ مجرم۔ تفسیر وار۔
 عاظر - (ع-۱) صفت) (۱) خوشبودار۔ مطہر (۲) فیاض۔ بے غیہ خواہ (۳)
 پاکیزہ۔ نفیس۔ خاطر کے ساتھ بطور تاج استعمال ہوتا ہے۔
 عاظف - (ع-۱) صفت) بھلنے والا۔ شینق۔ بہر بان۔
 عاظفت - (ع-۱) صفت) (۱) مہربانی۔ لطف۔ عنایت۔ شفقت۔
 عاظفہ - (ع-۱) صفت) (۱) عاظف کی تائید تاج بیکل ہوئی۔ طلائے والی۔
 عاقبت - (ع-۱) صفت) (۱) صحت۔ سلامتی (۲) امن۔ آسودگی
 (۳) نیکی۔ جھلائی۔ خیریت۔
 عاقبت اندیش - (ع-۱) صفت) اندیش۔ جھلائی چاہنے والا۔
 عاقبت تلک کرنا - (ا-۱) محاورہ) چین سے نہ بیٹھنے دینا۔ آرام نہ لینے دینا
 عاقبت سوز - (ع-۱) صفت) امن و سکون بر باد کرنے والا۔
 عاق - (ع-۱) صفت) مال باپ کا نافرمان۔ باغی۔ سرکش۔
 عاق کرنا - (ا-۱) محاورہ) اولاد کو نافرمانی کے باعث حقوقِ فرزندگی سے
 محروم کرنا۔ چھوڑ دینا۔
 عاق نامہ - (ع-۱) صفت) اولاد کو محروم کرنے کی دستاویز
 عاقبت - (ع-۱) صفت) (۱) آخر انجام۔ خاتمہ (۲) نتیجہ۔ ثمرہ
 حاصل (۳) آخرت۔ بھٹی (۴) آخر کار۔ جمع۔ عواقب۔
 عاقبت الامر - (ع-۱) صفت) متعلقِ فعل، آخر کار۔
 عاقبت اندیش - (ع-۱) صفت) دور اندیش۔ انجام سوچنے والا۔ ہوشیار عاقل
 عاقبت بخیر ہونا - (ا-۱) محاورہ) انجام اچھا ہونا۔
 عاقبت بگاڑنا - (ا-۱) محاورہ) انجام خراب کرنا۔ آخرت خراب کرنا۔
 مال باپ کی نافرمانی سے گنہگار بننا۔
 عاقبت میں - (ع-۱) صفت) انجام پر نظر رکھنے والا۔ ہوشیار۔
 عاقبت خراب کرنا - (ع-۱) صفت) عاقبت گندی کرنا۔ (ا-۱) محاورہ) عاقبت
 بگاڑنا۔ بُرے کام کرنا۔
 عاقبت کا گوشہ - (ع-۱) صفت) (۱) دوسری دنیا کا ہسار۔ نیک اعمال۔ اچھے کام۔
 عاقبت کے پورے سمیٹنا - (ا-۱) محاورہ) مدت تک سمیٹنا۔ جو شخص باوجود

بڑھاپے کے مرنے سے دوہم کرے اس کی نسبت طرزاً کہتے ہیں۔
 عاقبت گرگ زادہ گرگ شود (ف-۱) مثل) بداصل کی کتنی ہی
 گرچہ با آدمی بزرگ شود (۱) تربیت کی جائے اس کا اصلا
 نہیں بدلتا۔
 عاقبت میں کام آنا - (ا-۱) محاورہ) قیامت کے دن گنہگاروں کی معافی دینا
 عاقر (عاقرہ) - (ع-۱) صفت) بچہ جس کے اولاد نہ ہوتی ہو۔
 عاقر قرحا - (ع-۱) صفت) (۱) مذ) ایک دوا جو دانتوں کے درد کے کام
 آتی ہے۔ عقر قرحا۔
 عاقل - (ع-۱) صفت) دانا۔ ہوشیار۔ دانش مند۔
 عاقل را اشارہ کافی سمت - (ف-۱) مقولہ) عملد اشارے سے ہی
 بات کو پاجاتا ہے۔
 عاقلہ - (ع-۱) صفت) عقلمند عورت۔
 عاکف - (ع-۱) صفت) گوشہ نشین۔ مسجد میں ایک گوشے کے اندر عبادت
 کے لیے بیٹھنے والا۔ اعتکاف کرنے والا۔ معتکف۔
 عالم - (ع-۱) صفت) (۱) مذ) دانا۔ جاننے والا۔ بیت پڑھا کھا۔ مولوی۔
 عالم الغیب - (ع-۱) صفت) (۱) مذ) غیب کا حال جاننے والا۔ خدا تعالیٰ۔
 عالم با عمل - (ع-۱) صفت) وہ عالم جس نے پڑھ کر اُمس پر عمل ہی کیا ہو۔
 عالم - (ع-۱) صفت) (۱) زمانہ۔ دنیا۔ جہان (۲) دنیا کے لوگ۔ مخلوق (۳) قسم۔
 عینس (۴) حالت۔ صورت۔ درجہ (۵) طریقہ۔ ڈھنگ۔ چال (۶) لطف
 مزہ (۷) حسن۔ رونق (۸) مانند۔
 عالم آرا - (ع-۱) صفت) دنیا کو آراستہ کرنے والا۔ جہاں آرا دہی آرا۔
 عالم آخرت - (ع-۱) صفت) (۱) مذ) اگلا جہان۔ آخرت۔ بھٹی۔
 عالم ارواح - (ع-۱) صفت) (۱) مذ) روحوں کا جہان۔ وہ جگہ جہاں روہیں
 رہتی ہوں۔
 عالم اسباب - (ع-۱) صفت) (۱) مذ) جہاں ہر کام کا ایک سبب ہوتا ہے۔ دنیا
 عالم افرورز - (ع-۱) صفت) جہاں کو روشن کرنے والا۔
 عالم الامر - (ع-۱) صفت) (۱) مذ) عالم ملائکہ۔ عالم ارواح۔ فرشتوں یا روحوں کا جہان
 (۲) وہ چیزیں جن میں قول اور اندازہ کو دخل نہ ہو۔
 عالم بالا - (ع-۱) صفت) (۱) مذ) آسمان۔ عرش (۲) بہشت کے عالی درجہ
 لوگوں کے رہنے کی جگہ۔
 عالم بدل جانا - (ا-۱) محاورہ) انقلاب عظیم ہو جانا۔
 عالم برزخ - (ع-۱) صفت) (۱) مذ) مقام ارواح جو موت اور قیامت کے درمیان ہے
 عالم بیداری - (ع-۱) صفت) (۱) مذ) بگنے کی حالت میں۔
 عالم پناہ - (ع-۱) صفت) جو مخلوق کے امن کا سبب ہو۔ بادشاہ۔
 عالم پھر جانا - (ا-۱) محاورہ) زمانہ پھر جانا۔ لوگوں کا ناراض ہو جانا۔
 عالم شباب - (ع-۱) صفت) (۱) صفت) دنیا کو روشن کرنے والا۔ سورج۔
 عالم تصور - (ع-۱) صفت) (۱) مذ) غور و فکر کی حالت۔ خیال کی دنیا۔ سکوت
 اور حیرت کی حالت۔
 عالم جاوید - (ع-۱) صفت) (۱) مذ) عالم آخرت۔ دوسری دنیا جو بے زوال ہے۔
 عالم جزوت - (ع-۱) صفت) (۱) مذ) فرشتوں کی دنیا۔ وہ مقام ہوشیاروں سے اچھا ہے۔

عالم خواب - (ع-ف-ا-ذ) خواب کی حالت۔ وہ دنیا جو سوتے میں نظر آئے
عالم دکھانا - (ا-مخادرہ) بہار دکھانا۔
عالم دگر گول ہونا - (ا-مخادرہ) عجیب کیفیت ہونا۔
عالم دیگر ہونا - (ا-مخادرہ) حالت اور ہونا۔
عالم ذوق - (ع-ا-ذ) خوشی کی حالت۔
عالم رُو یا - (ع-ا-ذ) خواب کی حالت۔
عالم شباب - (ع-ف-ا-ذ) جوانی کا زمانہ۔
عالم شہود - (ع-ا-ذ) وہ عالم جس میں سب کچھ نظر آئے (۲) تقوت میں
وہ حالت جس میں ہر چیز کے اندر خدا کا جلوہ نظر آئے۔
عالم صغریٰ (صغیر) - (ع-ا-ذ) دنیا (۲) آدمی کا جسم۔
عالم سفلی - (ع-ا-ذ) دنیا۔ زمین۔
عالم عالم - (ع-متعلق فعل) کمرشت سے۔
عالم علوی - (ع-ا-ذ) آسمانی دنیا۔ عالم بالا۔
عالم غیب - (ع-ا-ذ) دوسرا جہان جو چھپا ہوا ہے۔
عالم فانی - (ع-ا-ذ) دنیا۔
عالم قدس - (ع-ا-ذ) بیشت۔
عالم کون و فساد - (ع-ا-ذ) دنیا۔
عالم گیر - (ف-صفت) (۱) جہاں کو زیر کرنے والا (۲) دنیا میں پھیلا ہوا۔
عالم پر چھپایا ہوا۔ تمام دنیا کا (۳) بادشاہ۔
عالم لا ہوت - (ع-ا-ذ) ذاتِ الہی کا مقام جہاں ساکھ کو فنا فی اللہ
حاصل ہوتا ہے۔
عالم مثال - (ع-ا-ذ) اس دنیا سے زیادہ لطیف دنیا جس میں یہاں کی تمام
چیزوں کا نمونہ یا اصل موجود ہے (۲) خیالی دنیا۔ خواب۔
عالم معنی - (ع-ا-ذ) وہ دنیا جو محسوس نہ ہو سکے۔ خدا کی ذات و صفات۔
عالم ملکوت - (ع-ا-ذ) فرشتوں کی دنیا۔
عالم ناسوت - (ع-ا-ذ) فانی کی دنیا۔
عالم نباتات - (ع-ا-ذ) نباتات کی دنیا۔
عالم نزال ہونا - (ا-مخادرہ) انداز مختلف ہونا۔ طریقے جدا ہونا۔ بدلی ہوئی حالت
عالم وجد طاری ہونا - (ا-مخادرہ) بے خودی کی حالت ہونا۔
عالم وجود - (ع-ا-ذ) زندگی کا عالم۔ عالم ہستی۔
عالم جو - (ع-ف-ا-ذ) خاموشی کی حالت۔ سکوت۔
عالم یاس - (ع-ف-ا-ذ) یلوسی اور نا اُمیدی کی حالت۔
عالمی - (ع-عال-ی) (۱) ذات - صفت (۲) دنیا کا۔ دنیاوی۔ دنیا کا رہنے والا۔
عالمیساں - (ع-عال-ی) (۱) عالم کی جمع۔ انسان۔ لوگ۔
عالمین - (ع-عال-ی) (۱) عالم کی جمع۔ بہت سے جہاں۔
عالمی - (ع-صفت) (۱) اُدنیجا۔ بلند (۲) بڑا۔ عظیم (۳) صدر۔ مقدس۔ قابلِ تعظیم۔
عالمی جہاد (جناہ) - (ع-ف-صفت) بڑے رُتبے والا۔ بلند شان
والا۔ بلند پایہ۔
عالمی خاندان - (ع-صفت) بڑے گھر کا۔ امیر زادہ۔ اچھے خاندان کا۔
عالمی دماغ - (ع-صفت) بڑے دماغ والا۔ مصلحت مند۔ دانہ۔

عالمی رتبہ - عالی قدر - (ع-صفت) بڑے مرتبے والا۔ والا شان۔
عالمی شان - (ع-صفت) اعلیٰ رتبے کا۔ بڑی شان والا (۲) عمدہ۔ شان دار۔
عالمی ظرف - (ع-صفت) بڑے حوصلے کا۔ بڑے مہر و تحمل کا۔
عالمی وقار - (ع-صفت) بڑے جاہ و جلال والا۔
عالمی ہمت - (۱) بڑی ہمت والا۔ اولوالعزم۔ صاحبِ حوصلہ۔ سخی۔
قیامتین۔ دل والا۔ بہادر۔
عالمی تہمتی - (ع-صفت) (۱) برأت۔ دلیری (۲) بلند حوصلگی۔ سخاوت۔ فیاضی۔
عالمیہ - (ع-الی-یہ-ع-عال-یہ) (ع-صفت) (۱) بلند۔ بڑی۔ بزرگ (۲)
مسلمان عورتوں کا خطاب۔
عالم - (ع-صفت) (۱) پھیلا ہوا۔ مشہور۔ معمولی (۲) سب۔ تمام (۳) بازاری
(۴) رواجی۔ رسمی (۵) سال۔ برس (۶) مرد و عورت (۷) مشترک مشغل۔
(۸) بہت۔ بسیار۔ کثیر۔
عالم پسند - (ع-ف-صفت) جسے ہر کوئی پسند کرے۔
عالم روش - (ع-ا-مٹ) (۱) مٹ۔ معمولی طریقہ۔
عالم فہم - (ع-صفت) آسان۔ سب کی سمجھ میں آ جانے والا۔
عالم گردینا - (ا-مخادرہ) مشہور گردینا۔ مشہور گردینا۔
عالم لوگ - (ا-ذ) سب لوگ۔ معمولی لوگ۔ عوام۔
عالم میں - (ا-متعلق فعل) سب کے سامنے۔ علانیہ۔ کھلم کھلا۔
عالم - (ع-صفت) (۱) آباد کرنے والا۔ جمع۔ اتحاد۔ عامین۔
عالم کرہ - (ع-جام) (۲) (ع-صفت) (۱) بھرا ہوا۔ مالا مال (۲) شاہی۔ شالانہ۔
عالمی - (ع-ا-ذ) (۱) حاکم۔ تحصیل دار (۲) سیانا۔ بھوت پریت کا مکمل جاننے
والا۔ منتر پڑھنے والا (۳) عمل کرنے والا۔
عالمہ - (ع-ا-مٹ) (ع-صفت) (۱) تائینٹ۔ (۲) بڑو۔ مخمصر۔ واقعہ۔ حقیقت۔
عالمہ - (ع-جام-مٹ) (ع-صفت) (۱) سب لوگوں سے منسوب۔ مشہور
عالم (۲) سب۔
عالمۃ الناس - (ع-ا-مٹ) (ع-صفت) عام لوگ۔ عوام۔
عالمی - (ع-صفت) (۱) عام سے منسوب۔ ادنیٰ۔ جاہل۔ بازاری (۲) اندھا۔
عالمیائہ - (ع-جام-ی) (۱) (ع-صفت) (۱) جاہلوں کا (۲) عوام کا (۳) گھینا۔ بڑا۔
عالم - (ع-ا-ذ) (۱) نافر کے نیچے کی جگہ جہاں بال ہوتے ہیں (۲)
شرم گاہ کے بال۔
عالمہ - (ع-ا-اد) (ع-صفت) (۱) الٹ کر آنے والا۔ واپس آنے والا۔ پھرنے والا۔
عالمہ ہونا - (ا-مخادرہ) الٹ پڑنا۔ ذتے پڑنا۔ صادق آنا۔
عالم - (ع-صفت) فقیر۔ درویش۔
عالمہ - (ع-صفت) خاندان (۲) بیوی۔
عالمی - (ع-صفت) خاندان سے متعلق۔ بیباہ شادی سے متعلق (۲) (مٹ) فقیری
عالمی قانون - (ع-ف-ا-ذ) (۱) ازدواجی زندگی کے متعلق قانون۔

ع - ب

عبثا - (ع-با) (ع-ا-ذ) ایک لمبا کوٹ یا چٹخہ جو پاؤں تک ہوتا ہے۔ بچہ پٹخہ۔

عجا پوش - (ع۔ ف۔ صفت) عجا پہنے ہوئے۔
عجاوہ - (ع۔ ا۔ مذ) عابد کی جمع۔

عجاد - (ع۔ با۔ ذ۔ ع۔ ا۔ مذ) عباد کی جمع - بندے - غلام۔

عبادت - (ع۔ با۔ ذ۔ ع۔ ا۔ مذ) (۱) بندگی (۲) طاعت (۳) نماز و عبادت جمع - عبادت
عبادت کرنا - (م۔ مرکب) خدا کی بندگی کرنا - پوجا پاٹ کرنا - پرستش کرنا
نماز پڑھنا - طاعت کرنا۔

عبادت گاہ - (ع۔ ا۔ مذ) (۱) مسجد - مندر - گرجا۔
عبادتگاہ - (ع۔ ا۔ مذ) (۱) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چار صحابہ جن کے نام عبادت گاہ تھے

عبادت - (ع۔ با۔ ذ۔ ع۔ ا۔ مذ) (۱) متحریر - مضمون - بیان - مدعا پر مراد۔
عبادت آرائی - (ع۔ ف۔ ا۔ مذ) (۱) مضمون کسٹور اور گھٹنا - مضمون کی رنگینی۔
عبادت ظہری - (ع۔ ا۔ مذ) (۱) وہ عبارت ہوگی جس کی تحریر کی پشت پر کلمے جائے

عبادت ہونا - (۱) عبادت طلب ہونا - مدعا غلط ہونا۔

عباسی - (ع۔ ب۔ بی۔ ع۔ ا۔ مذ) حضرت عباس کے خاندان کا نام جو
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قہم محترم تھے (۲) ایک قبیلہ اور گونا۔
(۳) سنگ مرمر کی ایک قسم۔

عباسیہ - (ع۔ ب۔ بی۔ ع۔ ا۔ مذ) (۱) خلافت بنی عباس سے متعلق (۲)
حضرت عباس سے متعلق۔

عبث - (ع۔ ب۔ ع۔ ا۔ مذ) (۱) بے فائدہ - فضول - بیکار (۲) بازی
کھیل (۳) ناحق - بلا وجہ۔

عبد - (ع۔ ب۔ ع۔ ا۔ مذ) (۱) بندہ - غلام (۲) ملازم - نوکر۔ جمع - عباد۔
عبد الدنیا - (ع۔ صفت) دنیا کا بندہ - دنیا کی لالچ پر دین کی بدوانہ
رکنے والا۔

عبدیت - (ع۔ ب۔ ع۔ ا۔ مذ) (۱) بندگی - اطاعت - غلامی۔
عبس - (ع۔ ا۔ مذ) (۱) قبیلہ کوئی (۲) گھاٹ (۳) گھاٹ کا محمول (۴) کنگان اور یا
ذرات اور عرب کا درمیانی علاقہ جس سے عبرانی منسوب ہے۔

عبرانی - (ع۔ ب۔ بی۔ ع۔ ا۔ مذ) (۱) اہل کنگان کی زبان - یہودیوں کی
زبان (صفت) عبر کی اولاد - اسرائیلی۔

عبرت - (ع۔ ب۔ ع۔ ا۔ مذ) (۱) نصیحت پکڑنا (۲) خوف - اندیشہ۔
عبرت انگیز - (ع۔ ف۔ صفت) ایسی بات جسے دیکھ کر آدمی کو خوف آئے
اور وہ اس سے نصیحت پکڑے۔

عبرت میں - (ع۔ ف۔ صفت) انجام میں - جو عبرت پکڑے۔

عبرت پذیر - (ع۔ ف۔ صفت) عبرت پکڑنے والا۔

عبرت پکڑنا - (۱) عبادت نصیحت پکڑنا - متنبہ ہونا - نصیحت حاصل کرنا۔

عبرت دلانا - (۱) عبادت نصیحت کرنا خوف دلانا - ڈرانا کسی گناہ کی پاداش سے

عبرت ناک - (ع۔ ف۔ صفت) خوف دلانے والا۔

عبرت ہونا - (۱) عبادت کسی بات کی نصیحت کا موجب ہونا نصیحت حاصل ہونا

عبلس - (ع۔ ا۔ ف۔ صفت) ترشوی - چڑچڑائی (۲) قرآن شریف کی ایک سورتہ۔

عبقری - (ع۔ صفت) ذہین - فطین (۲) سردار - اعلیٰ - نہایت اچھا۔

عبودیت - (ع۔ ب۔ بی۔ ع۔ ا۔ مذ) (۱) بندگی - غلامی (۲)
اطاعت - عبادت۔

عبور - (ع۔ ب۔ ع۔ ا۔ مذ) (۱) پانی کو پار کرنا - پانی سے گزرنا (۲) کتب یا
مسائل دینیہ پر حادی ہونا - خوب مہارت ہونا۔

عبور دریائے شور کرنا - (۱) عبادت (۲) سمندر یا آرتانا (۳) کسی قوم کی پاداش
میں جزیرہ انڈیمان رکالے پانی پھینکا (۴) عمر قیدی گزارا۔
عبور ہونا - (۱) عبادت پر سے طور پر واقعیت ہونا - حادی ہونا - جانا۔

عبوری - (ع۔ صفت) عارضی - وقتی - ہنگامی۔
عبور - (ع۔ ب۔ ع۔ ا۔ مذ) (۱) زنگ کی ایک قسم جو اندر سے زرد ہوتی ہے
(۲) طویل القامت - سڈول۔

عبید - (ع۔ ب۔ ع۔ ا۔ مذ) (۱) عباد کی جمع - بہت سے غلام۔
عبید - (ع۔ ب۔ ع۔ ا۔ مذ) (۱) عباد کی تصغیر - چھوٹا غلام۔

عبیہ - (ع۔ ب۔ ع۔ ا۔ مذ) (۱) ایک خوشبودار مسنون جو مشک - گلاب اور صندل
و دیگر سے تیار کر کے کپڑوں پر چھڑکا جاتا ہے۔

ع۔ ت

عتاب - (ع۔ ت۔ اب۔ ع۔ ا۔ مذ) (۱) ملامت (۲) عقبتہ (۳) غضب - قہر - نالاسگی
عتاب اتارنا - (۱) عبادت (۲) عقبتہ یا خشکی دور کرنا۔

عتاب اتارنا - (۱) عبادت (۲) عقبتہ دور ہونا۔

عتاب الہی - (ع۔ ا۔ مذ) خدا کا قہر - آفت سماوی - غضب الہی - خدا کی نار۔
عتاب میں آنا - (۱) عبادت (۲) کسی کی خشکی یا عقبتہ کا نشانہ مٹنا۔

عتاب نامہ - (ع۔ ت۔ ن۔ ع۔ ا۔ مذ) عقبتہ کا خط - وہ خط جس میں خشکی یا سزا تحریر ہو۔

عتاب و خطاب - (ع۔ ا۔ مذ) عقبتہ و خطاب خشکی دانا واسگی - ڈانٹ ڈپٹ۔

عقیبات - (ع۔ ت۔ اب۔ ع۔ ا۔ مذ) (۱) آستانے - درگاہ - رودنہ۔

عقبہ - (ع۔ ت۔ ع۔ ا۔ مذ) آستانہ - درگاہ - رودنہ۔

عقبہ عالیہ - (ع۔ ا۔ صفت) اونچی - اونچا - بلند - بزرگ کی مقدس درگاہ۔

عسرت - (ع۔ ت۔ ع۔ ا۔ مذ) (۱) قریبی رشتہ دار - بیٹیاں۔

عسرت اظہار - (ع۔ ا۔ صفت) پاک اولاد - اکتائتہ (۲) آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کی اولاد

علیق - (ع۔ ت۔ ع۔ ا۔ مذ) (۱) پڑانا (۲) آزاد (۳) برگزیدہ - چنا ہوا۔

علقیات - (ع۔ ا۔ صفت) پڑانی چیزوں کا علم۔

ع۔ ث

عشرات - (ع۔ ث۔ ع۔ ا۔ مذ) (۱) عسکر - لشکر۔

عثمان - (ع۔ ث۔ ع۔ ا۔ مذ) مشہور صحابی - تیسرے خلیفہ راشد - رسول خدا صلی اللہ
علیہ وسلم کے دادا۔

عثمانی - (ع۔ صفت) عثمان کی اولاد - جو ترکوں کا موجد اعلیٰ تھا (۲) عثمان سے
منسوب (۳) ترک۔

ع - ج

عدالت - (ع۔ دا۔ لٹ) (ع۔ ۱۔ مٹ) (۱) برابری (۲) انصاف - نیاد۔ عدل (۳) کچری۔ دربار۔ اجلاس (۴) انصاف کرنے والا۔ ج۔

عدالت ابتدائی - (ع۔ ف۔ ۱۔ مٹ) وہ پہلی عدالت جس میں مقدمہ شروع اور فیصلہ ہوتا ہے۔

عدالت اپیل - (ع۔ ۱۔ مٹ) بڑے حاکم کی کچری جہاں اپیل کی جانے۔

عدالت چڑھنا - (۱) عمارت، دعویٰ کرنا۔ عدالت تک جانے کی نوبت آنا۔

عدالت خفیہ - (ع۔ ۱۔ مٹ) وہ عدالت جس میں قرضہ کے چھوٹے چھوٹے مقدمات کا فیصلہ کیا جائے۔ چھوٹی کچری۔

عدالت دیوانی - (ع۔ ۱۔ مٹ) وہ عدالت جس میں صرف لین دین کے متعلق مقدمات کا فیصلہ ہوتا ہو اور وہ قید کی عمارت نہ ہو۔

عدالت مشن - (ع۔ ۱۔ مٹ) وہ فوج داری کی کچری جس میں سنگین مقدمات کا فیصلہ کیا جائے۔

عدالت صلح - (ع۔ ۱۔ مٹ) صلح کی کچری جس میں مار پیٹ۔ پوری چکاری قتل وغن وغیرہ کے مقدمات فیصلہ کیے جاتے۔

عدالت عالیہ - (ع۔ ۱۔ مٹ) بڑی عدالت۔ ہائی کورٹ۔ سپریم کورٹ۔

ممبر یا جج کے سب سے بڑی عدالت۔

عدالت فوج داری - (ع۔ ۱۔ مٹ) فوج داری مقدمات کی عدالت۔

عدالت کرنا - (۱) عمارت (۲) انصاف کرنا (۳) کچری کرنا۔ اجلاس کرنا۔

عدالت ماتحت - (ع۔ ۱۔ مٹ) (۱) چھوٹی کچری یا محکمہ جو کسی بڑے محکمے کے تحت ہو۔

عدالت مال - (ع۔ ۱۔ مٹ) مال افسر یا کلکٹر کی عدالت بولگان، مالیہ اور زرعی اراضی کے متعلق فیصلہ کرتی ہے۔

عدالت مجازہ - (ع۔ ۱۔ مٹ) باختیار عدالت جسے پورا پورا اختیار حاصل ہو۔

عدالت مراجعہ اولیٰ - (ع۔ ۱۔ مٹ) پہلے اپیل کی عدالت۔

عدالتی - (ع۔ دا۔ ل۔ تی) (۱) صرف عدالت کے متعلق۔ عدالت کا۔

عدالتی پیادہ - (ع۔ ۱۔ مٹ) وہ قاصد جو عدالت کے کاغذات لے کر جاتا ہے۔

عداوت - (ع۔ دا۔ و۔ ت) (ع۔ ۱۔ مٹ) بغض۔ دشمنی۔ کینہ۔ مخالفت۔ خصومت۔

عداوت رکھنا - (۱) عمارت، کینہ رکھنا۔ دشمنی رکھنا۔

عداوت نکالنا - (۱) عمارت، دشمنی کا بدلہ لینا۔

عداوتی - (ع۔ دا۔ و۔ تی) (۱) صرف عداوت رکھنے والا۔ دشمن۔ مخالف۔ بدخواہ۔ دشمنی کرنے والا۔

عدت - (ع۔ د۔ ت) (ع۔ ۱۔ مٹ) (۱) تعداد۔ شمار (۲) وہ مدت شرعی جس میں عودت دوسرا نکاح نہ کر سکے۔ مطلقہ کے لیے تین مہینے۔ بیوہ کے لیے چار ماہ دس دن اور حاملہ کے لیے وضع حمل تک۔

عدت میں بیٹھنا - (۱) عمارت، عورت کا طلاق اور دوسرے نکاح کے درمیان کی شرعی مدت گزارنا۔

عدد - (ع۔ د۔ د) (ع۔ ۱۔ مٹ) (۱) نمبر۔ گنتی۔ تعداد (۲) چند۔ رقم۔

عدد صحیح - پورا عدد۔ نہ بٹا ہوا عدد۔ اکائی۔ وہ عدد جس میں گنتی نہ ہو۔

عدوی - (ع۔ د۔ دی) (ع۔ ۱۔ مٹ) عدو سے منسوب۔ عدو سے متعلق۔

عدوی قیمت - (ع۔ ۱۔ مٹ) وہ قیمت جو عدو کے اعتبار سے لگائی جائے۔

عجاب - (ع۔ ۱۔ مٹ) تعجب۔

عجائب - (ع۔ ۱۔ مٹ) گرد و غبار۔

عجالت - (ع۔ ج۔ لٹ) (ع۔ ۱۔ مٹ) جلدی۔ تیزی۔ پھرتی۔ بعینہ اول نیز بکر اول۔

عجائب - (ع۔ ج۔ اب) (ع۔ ۱۔ مٹ) عجیب کی جمع۔ حیرت انگیز چیزیں۔

عجائب الخلق - (ع۔ ۱۔ مٹ) پیدائشی عجیب و غریب چیزیں۔

عجائب خانہ (گھر) - (ع۔ ۱۔ مٹ) عجائب گھر۔ وہ عمارت جہاں قدیم اور نادر چیزیں دیکھنے کے لیے رکھی جاتی ہیں۔ میوزیم۔

عجائب و غرائب - (ع۔ ۱۔ مٹ) انوکھی اور عجیب چیزیں۔

عجائبات - (ع۔ ج۔ اب) (ع۔ ۱۔ مٹ) عجائب کی جمع۔ انوکھی یا حیرت انگیز چیزیں۔

عجائز - (ع۔ ۱۔ مٹ) عجز کی جمع۔ بوڑھی عورتیں۔

عجب - (ع۔ جب) (ع۔ ۱۔ مٹ) (۱) تعجب۔ حیرت (۲) انوکھا۔ نادر۔

تعجب انگیز (۳) نیا۔ عمدہ۔ طرز۔

عجب حال ہونا - (۱) عمارت، بڑا حال ہونا۔ اہتر حال ہونا۔

عجب ذات شریف ہیں - (۱) عمارت، بہت تہذیبی بڑے بذات ہیں۔

عجب عالم ہے - (۱) عمارت، عجیب حالت ہے۔ طرز بہار ہے۔

عجب کیا - (۱) عمارت، کچھ تعجب نہیں۔ بہت ممکن ہے کہ۔

عجب نہیں - (۱) روزمرہ کچھ حیرت کی بات نہیں۔

عجب وقت تھا - (۱) عمارت، بڑا لطف زمانہ تھا۔ حیرت انگیز وقت تھا۔

عجب - (ع۔ ۱۔ مٹ) عجز۔ تکبر۔ گھنڈ۔ خود بینی۔ جمع : عجائب۔

عجز - (ع۔ ۱۔ مٹ) (۱) کمزوری۔ ناتوانی (۲) ڈار۔ شکست (۳) سستی۔ غزبی۔

انکار (۴) منت۔ سماجت۔ خوشامد۔

عجلیت - (ع۔ ج۔ لٹ) (ع۔ ۱۔ مٹ) جلدی۔ تیزی۔

عجم - (ع۔ ج۔ م) (ع۔ ۱۔ مٹ) (۱) گو نگا (۲) عرب کے سوا کوئی ملک۔

عجمی - (ع۔ ج۔ می) (ع۔ ۱۔ مٹ) عجم کا رہنے والا۔ ایرانی۔ تورانی۔

عجوبہ - (ع۔ ج۔ ب) (ع۔ ۱۔ مٹ) حیرت میں ڈالنے والی چیز۔ انوکھی چیز۔

عجیب چیز۔

عجوز - (ع۔ ج۔ ز) (ع۔ ۱۔ مٹ) (۱) بوڑھا۔ جمع : عجائز۔

عجول - (ع۔ ج۔ لٹ) (ع۔ ۱۔ مٹ) جلد باز۔

عجیب - (ع۔ ج۔ ب) (ع۔ ۱۔ مٹ) قابل تعریف۔ نرالا۔ حیرت انگیز۔

عجیب الخلق - (ع۔ ۱۔ مٹ) پیدائشی حیرت انگیز۔ انوکھی شکل کا۔

عجیب حال ہونا - (۱) عمارت، بڑا حال ہونا۔

عجیب و غریب - (ع۔ ۱۔ مٹ) طرز۔ نرالا۔ انوکھا۔ حیرت انگیز۔

عجیبہ - (ع۔ ج۔ بی) (ع۔ ۱۔ مٹ) عجیب و غریب۔ عجیب کی تائید۔

ع - د

عدو مشرے برا لگیز دکھ خیر ما در آں باشد۔ (ف۔ من۔ دشمن ایسی شہادت
کتاب ہے کہ اس میں ہماری بہتری ہوتی ہے۔
عدو شود سبب خیر گر خدا نخواهد۔ (ف۔ من۔ اگر خدا چاہے تو دشمن سے
بھی فائدہ پہنچ سکتا ہے۔

عدول۔ (ع۔ ذ۔ اول) (ع۔ ا۔ ذ) منہ پھیر لینا۔ انکار۔ دوگردانی۔
عدول حکم۔ (ع۔ ف۔ ا۔ ذ) نافرمانی حکم نہ ماننے والا۔ سرکش۔ باغی۔
عدول حکمی۔ (ع۔ ا۔ مٹ) نافرمانی۔ سرکشی۔ بغاوت۔
عدیل۔ (ع۔ ذ۔ ل) (ع۔ ص۔ ف) برابر۔ نظیر۔ یکساں۔ مانند۔ رُقبہ اور قدم
مساوی (۲) عادل۔ بھنصف۔ جمع، اعدلا۔
عدیل نہ ہونا۔ (م۔ ص۔ مرکب) برابر نہ ہونا۔ نظیر نہ ہونا۔
عَدیم۔ (ع۔ ذ۔ م) (ع۔ ا۔ ذ) نیست۔ نابود۔ ناپید۔ کم۔ نایاب۔ معدوم۔
عَدیم القصدت۔ (ع۔ ص۔ ف) جیسے بالکل فرحمت نہ ہو۔
عَدیم المثال۔ (ع۔ ص۔ ف) بے نظیر۔ بے مثل۔ جس کے برابر کوئی نہ ہو۔
عَدیم الوجود۔ (ع۔ ص۔ ف) نایاب۔ کم۔ یاب۔

عَدس۔ (ع۔ ا۔ مٹ) سُور۔
عَدسہ۔ (ع۔ ذ۔ سہ) (ع۔ ا۔ ذ) فوٹوگرافی کے کیمرے کا وہ چھوٹا سا آئینہ جس
میں عکس آتا ہے۔ عَدب شیشہ۔ لُز۔
عَدل۔ (ع۔ ا۔ ذ) (ع۔ ا۔ ذ) برابری۔ مساوات (۲) نظیر۔ مانند (۳) انصاف
داد۔ نیازی۔
عَدل پرورد۔ (ع۔ ص۔ ف) انصاف کرنے والا۔
عَدل پروردی۔ (ع۔ ا۔ مٹ) انصاف۔ انصاف کی پرورش۔
عَدل کرنا۔ (م۔ ص۔ مرکب) انصاف کرنا۔ ایمان داری اور دیانت
سے فیصلہ کرنا۔
عَدل گستر۔ (ع۔ ف۔ ص۔ ف) انصاف کرنے اور داد دینے والا۔
عادل و بھنصف۔
عَدل گستری۔ (ع۔ ف۔ ا۔ مٹ) انصاف۔
عَدلیہ۔ (ع۔ ل۔ ی۔ ی) (ع۔ ا۔ مٹ) عدل و انصاف کا شعبہ۔ عدالتی نظام۔
جوڈی شیری۔ (Judiciary)

عَدَم۔ (ع۔ ذ۔ م) (ع۔ ا۔ ذ) (ع۔ ا۔ ذ) نیستی۔ نہ ہونا۔ ناپیدی (۲) غیر حاضری (۳) نقصان
مرکبات میں نفی کے معنی میں آتا ہے جیسے عدم حاضری۔

عَدَم آباد۔ (ع۔ ا۔ ذ) وہ عالم جہاں آدمی مرنے کے بعد جاتا ہے۔ ابدی عالم۔
عَدَم اقتدارات سماعت۔ (ع۔ ف۔ ا۔ ذ) مقدمہ سننے کا اختیار نہ ہونا۔
عَدَم ادائیگی۔ (ع۔ ف۔ ا۔ ذ) رقم ادا نہ کرنا۔
عَدَم استقامت۔ (ف۔ ا۔ ص۔ ف) طاقت نہ ہونا۔ عُزبَت۔
عَدَم اعتماد۔ (ع۔ ف۔ ا۔ ص۔ ف) بھروسہ باقی نہ رہنا۔ اطمینان نہ ہونا۔
عَدَم پیروی۔ (ا۔ ص۔ ف) بے پروائی۔ غیر حاضری (۲) مقدمہ کی پیروی نہ کرنا۔
عَدَم تصفیہ۔ (ف۔ ا۔ ذ) فیصلہ نہ ہونا۔
عَدَم تکمیل۔ (ف۔ ا۔ ذ) نامکمل ہونا۔
عَدَم تعمیل۔ (ع۔ ف۔ ا۔ ذ) تعمیل نہ کرنا یا نہ ہونا۔
عَدَم توجہ۔ (ع۔ ا۔ ص۔ ف) بے توجہی۔ بے پروائی۔ بے احتیاطی۔ بے مروتی۔
عَدَم بیعت۔ (ع۔ ف۔ ا۔ ذ) کسی امر کی دلیل یا تصدیق یا شہادت کا نہ ہونا
عَدَم فرصت۔ (ع۔ ف۔ ا۔ ذ) ہمت نہ ہونا۔ وقت نہ ہونا۔
عَدَم مداخلت۔ (ع۔ ف۔ ا۔ ذ) (ا) کسی ملک کے اندرونی معاملات میں
داخل نہ دینا (۲) کسی کام میں دخل نہ دینا۔

عَدَم مطالبت۔ (ف۔ ا۔ ص۔ ف) کسی امر کا دوسرے کے مطابق نہ ہونا۔
عَدَم موجودگی۔ (ع۔ ف۔ ا۔ ذ) غیر حاضری۔
عَدَم وجود برابری۔ (ا۔ محاورہ) ہونا نہ ہونا برابر ہے یعنی نکتا ہے بیکار ہے۔
عَدان۔ عَدان۔ (ع۔ ذ۔ ن) (ع۔ ا۔ ذ) (ع۔ ا۔ ذ) بہشت جس میں آدم کو رکھا گیا تھا۔
(۲) اقامت کرنا (۳) عرب کے جنوب مغربی کونے میں ایک چھوٹا سا جزیرہ
نا۔ تیسرے معنی میں بیخ و دال مستعمل ہے۔
عَدانان۔ (ع۔ ا۔ ذ) حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ایک شخص جس
نیک پیغمبر خداصلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ مسلسل چلتا ہے۔
عَدنی۔ (ع۔ ذ۔ ن) (ع۔ ص۔ ف) عَدان کا رہنے والا۔ عدن سے منسوب۔
عَدو۔ (ع۔ ذ۔ م) (ع۔ ا۔ ذ) (ع۔ ا۔ ذ) دشمن۔ بدخواہ۔ مخالفت (۲) رقیب۔ جمع اعداء

ع۔ ذ۔ ع

عَذاب۔ (ع۔ ذ۔ اب) (ع۔ ا۔ ذ) (ع۔ ا۔ ذ) تنگی۔ تکلیف۔ دکھ۔ مصیبت۔ اذیت۔
(۲) سزائے گناہ (۳) دقت۔ جھگڑا بھگڑا (۴) روگ۔ عیلت (۵) گناہ۔ پاپ۔
عَذاب اٹھانا۔ (ا۔ محاورہ) تکلیف اٹھانا۔ برداشت کرنا۔
عَذاب الحرق۔ (ع۔ ا۔ ذ) دوزخ کی آگ کا عذاب۔
عَذاب الہی۔ وہ مصیبت جو خدا کی طرف سے کلوں کی پاداش میں آئے۔
عَذاب الیم۔ (ع۔ ا۔ ذ) سخت عذاب۔
عَذاب ثواب۔ (ع۔ ا۔ ذ) گناہ ثواب۔ نیکی بدی۔ بُرائی بھلائی۔
عَذاب حمان۔ (ع۔ ف۔ ا۔ ذ) جی کا وبال۔ مصیبت۔
عَذاب جھیلنا۔ (ا۔ محاورہ) مصیبت اٹھانا۔ دکھ اٹھانا۔
عَذاب دوزخ۔ (ع۔ ف۔ ا۔ ذ) وہ تکلیف جو بد اعمالیوں کی وجہ سے
دوزخ میں لے لی۔
عَذاب سہنا۔ (ا۔ محاورہ) تکلیف یا دکھ برداشت کرنا۔
عَذاب سے چھوٹنا۔ (ا۔ محاورہ) مصیبت سے بچنا۔ تکلیف جاتی رہنا۔
عَذاب قبر (گور)۔ (ع۔ ف۔ ا۔ ذ) وہ سزا جو مُردے کو قبر میں گناہوں
کی پاداش میں لے۔
عَذاب کٹنا۔ (ا۔ محاورہ) مصیبت دُور ہونا۔
عَذاب کھینچنا۔ (ا۔ محاورہ) مصیبت برداشت کرنا۔
عَذاب موائی لینا۔ (ا۔ محاورہ) خود سے کسی مصیبت میں مبتلا ہونا بخوار خواہ
تکلیف میں پڑنا۔
عَذاب میں پڑنا۔ عَذاب میں پھینسا۔ (ا۔ محاورہ) دقت میں مبتلا ہونا۔
مصیبت میں پڑنا۔
عَذاب میں ہونا۔ (ا۔ محاورہ) سخت تکلیف میں ہونا۔

عذوبت - (ع۔ ذ۔ ب۔ ت) (ع۔ ا۔ م۔ ث) شیرینی۔ لذت۔

ع

عزائم (عزادہ) - (ع۔ ا۔ م۔ ذ) لباً جھکڑا۔ گاڑی۔

عزایچی - (ع۔ ف۔ ا۔ م۔ ذ) گاڑی چلانے والا۔

عزاق - (ع۔ ذ۔ ا۔ ق) (ع۔ ا۔ م۔ ذ) (۱) کنارہ۔ لب دریا (۲) وہ خاص ملک جو دریائے جیوں، دجلہ اور فرات کے کنارے واقع ہے (۳) موسیقی کا ایک راگ جسے چاشت کے وقت گاتے ہیں۔

عزاقی - (ع۔ ذ۔ ا۔ ق) (ع۔ ا۔ م۔ ذ) (۱) عراق کا گھوڑا۔ تازی۔ عربی گھوڑا (۲) ملک عراق سے منسوب۔ ملک عراق کا۔

عزاقی پر لبس نہ چلا گدھے کے کان ایٹھے - (۱) مثل، زبردست پر لبس نہ چلا تو غریب کو مارنے لگے۔

عزائیں - (ع۔ ا۔ م۔ ث) عروس کی جمع۔

عزاقص - (ع۔ ذ۔ ا۔ ق۔ ص) (ع۔ ا۔ م۔ ذ) عریضہ کی جمع۔ چھپاں بخلوط۔ درخواستیں۔

عرب - (ع۔ ر۔ ب) (ع۔ ا۔ م۔ ذ) ملک عرب کا باشندہ (۲) مشرق قریب کا ایک ملک جس کی زبان عربی ہے (۳) خوش بیان۔ فصیح۔

عربدہ - (ع۔ ر۔ ب۔ دہ) (ع۔ ا۔ م۔ ذ) (۱) بد خوئی (۲) لڑائی۔ جھگڑا۔ فتنہ۔

عربدہ جو - (ع۔ ر۔ ب۔ دہ) (ع۔ ا۔ م۔ ذ) (۱) لڑاکا۔ جنگ جو۔ شادی (۲) ہمشوق۔

عربی - (ع۔ ر۔ ب۔ ی) (ع۔ ا۔ م۔ ذ) (۱) عرب سے منسوب۔ عرب کا باشندہ (۲) عربی زبان۔

عربی زبان - عرب کی بول چال (۳) تازی گھوڑا۔

عربیت - (ع۔ ر۔ ب۔ ی۔ ت) (ع۔ ا۔ م۔ ذ) عربوں سے متعلق۔ عربوں کے اتحاد اور آزادی کی تحریک۔

عربیہ - (ع۔ ر۔ ب۔ ی۔ ہ) (ع۔ ا۔ م۔ ذ) (۱) عرب کی صورت (۲) عربی زبان سے منسوب۔

عزیزہ - (ع۔ ز۔ ہ) (ع۔ ا۔ م۔ ذ) طاقت۔

عزرس - (ع۔ ز۔ ر۔ س) (ع۔ ا۔ م۔ ذ) (۱) کسی بزرگ یا مرشد کی سالانہ فاتحہ کی مجلس جو تاریخ وفات پر ہو (۲) شادی کی دعوت۔ طعام دلیر۔

عرش - (ع۔ ر۔ ش) (ع۔ ا۔ م۔ ذ) (۱) بچت۔ سقف (۲) تخت۔ آسمان۔ آسمانوں آسمان۔

عرش (آشیاں) (آشیاں) - (ع۔ ر۔ ش) (ع۔ ا۔ م۔ ذ) وہ شخص جس کا گھر عرش پر ہو۔ مرحوم و مفقود۔

عرش اعظم - (ع۔ ر۔ ش) (ع۔ ا۔ م۔ ذ) خدا کا تخت۔

عرش اکبر - (ع۔ ر۔ ش) (ع۔ ا۔ م۔ ذ) انسان کا دل۔ قلب۔

عرش بریں - (ع۔ ر۔ ش) (ع۔ ا۔ م۔ ذ) وہ آسمان جہاں خدا کا تخت ہے۔

عرش پایہ - (ع۔ ر۔ ش) (ع۔ ا۔ م۔ ذ) صفیٰ مرتبہ۔

عرش پر کینچنا - (ع۔ ر۔ ش) (ع۔ ا۔ م۔ ذ) بہت بلند مرتبہ ہونا۔

عرش پر جھوٹنا - (ع۔ ر۔ ش) (ع۔ ا۔ م۔ ذ) ہلندی پر ہونا۔ بڑے رتبے پر ہونا۔

عرش پر جھنڈا گرٹنا - (ع۔ ر۔ ش) (ع۔ ا۔ م۔ ذ) بہت رعب ہونا۔ خوشامد کرنا۔

عرش پر چڑھانا - بڑی قدر کرنا۔ بڑی تعریف کرنا۔ معزز بنانا دینا۔

عرش پر چڑھنا - (ع۔ ر۔ ش) (ع۔ ا۔ م۔ ذ) بہت معزز ہو جانا۔

عذاب نازل ہونا - (ع۔ ا۔ م۔ ذ) آفت آنا۔ معیبت پڑنا۔

عذاب میں ڈالنا - (ع۔ ا۔ م۔ ذ) جگڑے میں پھنسانا۔ معیبت میں مبتلا کرنا۔

عذار - (ع۔ ذ۔ ا۔ ر) (ع۔ ا۔ م۔ ذ) عارضہ۔ زرخار۔ گال۔ چہرہ۔ زرخ۔

عذاب - (ع۔ ص۔ ف) شیریں۔ خوش گوار۔

عذیب الیبیان - (ع۔ ا۔ م۔ ذ) شیریں کلام۔

عذر - (ع۔ ا۔ م۔ ذ) (۱) بہانہ۔ سبب (۲) معذرت (۳) سبب۔ محنت (۴) اعتراض۔ گرفت۔ پکڑ (۵) معافی۔ طلب۔ غصہ (۶) انکار۔

عذر آور - (ع۔ ف۔ ص۔ ف) معذرت کرنے والا۔

عذرات - عذری جمع۔

عذرا متناع ناش - (ع۔ ف۔ ا۔ م۔ ذ) دعوے کی روک کا عذر۔

عذرا باقی نہ رکھنا - (ع۔ ا۔ م۔ ذ) کسی اعتراض کی گنجائش نہ چھوڑنا۔

عذر بے جا - (ع۔ ف۔ ا۔ م۔ ذ) ناجائز عذر۔ لغویاً بیہودہ معذرت جو قابل

سماحت نہ ہو۔

عذر پذیر - (ع۔ ص۔ ف) (۱) عذر قبول کرنے والا (۲) معافی کے قابل

(۳) قابل تسلیم۔

عذر پیش کرنا - (ع۔ ا۔ م۔ ذ) اعتراض پیش کرنا۔ کوئی دلیل یا حجت لانا بھت کرنا

عذر تراشنا - (ع۔ ا۔ م۔ ذ) ایسا عذر پیش کرنا جو حقیقی نہ ہو۔

عذر تقصیرات کرنا - (ع۔ ا۔ م۔ ذ) گناہوں کی معافی چاہنا۔

عذر تادیب آیام - (ع۔ ا۔ م۔ ذ) میعاد گزرنے کا عذر۔

عذر چلنا - (ع۔ ا۔ م۔ ذ) عذر کا تسلیم کیا جانا۔ عذر قبول ہونا۔

عذر خواہ (ساز-سیخ) - (ع۔ ف۔ ص۔ ف) عذر کرنے یا چاہنے والا۔

عذر خواہی - (ع۔ ف۔ ا۔ م۔ ذ) معذرت۔ کسی امر کا عذر بیان کرنا۔

عذر دار - (ع۔ ف۔ ص۔ ف) معترض۔ دعوے دار۔

عذر داری - (ع۔ ف۔ ا۔ م۔ ذ) (۱) اعتراض۔ مزاحمت (۲) دعویٰ۔ محنت۔

دلیل۔

عذر در میان لانا - (ع۔ ا۔ م۔ ذ) عذر پیش کرنا۔

عذر کرنا - (ع۔ ا۔ م۔ ذ) (۱) معذرت کرنا۔ معافی مانگنا (۲) اعتراض کرنا (۳) بحث کرنا۔

عذر گناہ بدتر از گناہ - (ع۔ ف۔ م۔ ث) غلط اور بیہودہ عذر کے متعلق کہتے ہیں۔

عذر لانا - (ع۔ ا۔ م۔ ذ) عذر پیش کرنا۔

عذر لنگ - (ع۔ ف۔ ا۔ م۔ ذ) غلط اور لغو عذر۔

عذر معذرت - (ع۔ ا۔ م۔ ذ) منت سماجت۔

عذر معقول - (ع۔ ا۔ م۔ ذ) صحیح اور بجا عذر۔

عذر نہ سنانا - (ع۔ ا۔ م۔ ذ) کوئی بہانہ نہ ماننا۔

عذر نہ ہونا - (ع۔ ا۔ م۔ ذ) انکار نہ ہونا۔ محنت نہ ہونا۔

عذر نبوش - (ع۔ ف۔ ص۔ ف) عذر سننے والا۔

عذر و راست - (ع۔ ا۔ م۔ ذ) میراث یا دوشے کا دعوے۔

عذر ہونا - (ع۔ ا۔ م۔ ذ) اعتراض ہونا۔

عذرا - (ع۔ ذ۔ ا۔ ر) (ع۔ ا۔ م۔ ذ) (۱) کنواری دوشیزہ (۲) فاطمہ کی مشوقہ کا نام (۳) حضرت مریم اور حضرت فاطمہ الزہرا کا لقب۔ جمع: عذارئ۔ عذاری۔

عرش بیگی - وہ عہدے دار جس کے ذریعے سے بادشاہ کے حضور میں گزارشات ہوسکیں۔

عرش پیرا ہونا - (۱- عہدہ) گزارش کرنا۔

عرش حال - (ع۔ ۱- مٹ) صورت حال کا اظہار۔ واقعہ کا بیان۔

عرش دار - (ف۔ ۱- مذ) جس کا عرش یا چوڑائی ہو۔

عرش داشت - (ع۔ ۱- مٹ) عرضی۔ درخواست۔ گزارش۔

عرش رسا - (ع۔ ۱- مٹ) عرش کرنے والا۔

عرش رسا ہونا - (۱- عہدہ) گزارش کرنا۔

عرش قبول ہونا - (۱- عہدہ) درخواست منظور ہونا۔ اہتمامنا۔

عرش کرنا - (ص۔ مرکب) (۱) التماس کرنا۔ کہنا۔ پیش کرنا (۲) اطلاع دینا رپورٹ کرنا۔

عرش کفندہ - (ف۔ ۱- مذ) عرض کرنے والا۔ درخواست کرنے والا۔

عرش مطلب - مطلب بیان کرنا۔

عرش محوض - (ع۔ ۱- مذ) درخواست۔ التماس و گزارش۔ کہنا سنا۔

عرضا - (ع۔ ۱- مذ) تابع فعل (۱) از روئے عرض۔ طولاً (۲) تفتیش۔ چوڑائی میں۔ اتفاقاً۔

عرضی - (ع۔ ۱- مذ) (۱) عرضی درخواست۔ عرضیہ جمع : عرض عرضی ٹھوکنا۔ (۱- عہدہ) تامل کرنا۔ دعویٰ کرنا۔ مقدمہ دائر کرنا۔

عرضی دعویٰ - (ع۔ ۱- مذ) وہ کاغذ جس میں مدعی حالات مقدمہ کو کھ کھدات تبدیلی میں گزارے یا وہ درخواست جوابتہا میں پیش کر کے مقدمہ چلایا جائے۔

عرضی نوٹس - (ع۔ ۱- مذ) قانونی اجازت سے عدالتی عرضیاں اور تنگ وغیرہ لکھنے والا۔

عرضہ - (ع۔ ۱- مٹ) ڈھال (۲) پہاڑ۔ جنت۔

عزف - (ع۔ ۱- مذ) پہچان۔ وہ نام جس سے انسان عام طور سے پہچانا جاسکے۔ عام نام۔

عزفا - (ع۔ ۱- مذ) عارف کی جمع۔ ولی لوگ۔

عزفات - (ع۔ ۱- مذ) عزت کے بارہ میل کے فاصلے پر ایک

مقدس میدان جہاں حاجی حج کے دن کھڑے ہو کر لینگ پکارتے ہیں۔ یہاں کچھ عرصہ قیام ہی حج ہے۔

عزفان - (ع۔ ۱- مذ) (۱) شناخت۔ پہچان (۲) حق تعالیٰ کی معرفت۔ خدا شناسی۔

عزفہ - (ع۔ ۱- مذ) (۱) ذی الحج کی نوں تاریخ جس میں تجاج عزت

میں کھڑے ہو کر لینگ پکارتے ہیں (۲) ہر تہوار کا پہلا دن۔ (۳) کسی شخص کے مرنے کے بعد دوسرا دن جس میں مردے کی فاتحہ پڑھاتے ہیں۔

عزنی - (ع۔ ۱- مٹ) عرصہ۔ درسی مشہور۔

عزق - (ع۔ ۱- مذ) (۱) پسینہ (۲) کیشد کے ذریعے نکالا ہوا پانی

(۳) دس کسی چیز کا۔ پوڑا ہوا پانی۔ شراب۔ شیرہ۔

عزق اچانا - (۱- عہدہ) (۱) پسینہ آنا (۲) مشم سے پسینہ لینے ہو جانا۔

عزق آلود - (ع۔ ۱- مٹ) پسینہ لینے سے تڑپنا۔

عرش پر دماغ (ہونا) پہنچنا۔ (۱- عہدہ) (۱) نہایت مزبور ہونا (۲) فخر کرنا۔

عرش پناہ - (ع۔ ۱- مٹ) بڑے رتے والا۔

عرش سے اتری کھجوریں اٹکی - (۱- مٹ) ایک مصیبت سے بچے ہی تھے

کہ دوسری اُپر تری۔

عرش سے فرش تک - (۱- مٹ) (۱) آسمان سے زمین تک۔ اُپر سے نیچے تک

عرش کا تارا - (۱- مٹ) (۱) سب سے اُوچے آسمان کا تار (۲) بہت بڑے

درجے والا۔ انتہائی شان والا۔

عرش کے تار سے توڑنا - (۱- عہدہ) (۱) بڑا کام کرنا۔ بڑھ کر ہاتھ مارنا۔

اڑکھا اور عجیب کام کرنا۔ نئے خیالات ظاہر کرنا (۲) گناہ عظیم کرنا (۳)

کمال چلا کر ہونا۔

عرش معلیٰ - (ع۔ ۱- مذ) عرش بریں۔ سب سے اُوچا آسمان۔

عرش بلانا - (۱- عہدہ) مظلوم کی آہ کا اثر ہونا۔

عرش ہل جانا - (۱- عہدہ) مظلوم کی فریاد سن کر خدا کو رحم آجانا۔

عرشہ - (ع۔ ۱- مذ) (۱) بھری جہاز کی جھت (۲) بھری جہاز کا تختہ۔

عرشی - (ع۔ ۱- مذ) (۱) خدا کی بارگاہ میں حاضر رہنے والے فرشتے

مقرب فرشتے۔

عرصہ - (ع۔ ۱- مذ) (۱) آئینہ۔ انگلی (۲) میدان (۳) شطرنج

کی بساط (۴) ناصلہ۔ دوری (۵) دیر۔ تاخیر۔ توقف (۶)

زمانہ۔ آئنا۔

عرصہ تنگ کرنا - (۱- عہدہ) عاجز کرنا۔ بے بس کرنا۔

عرصہ تنگ ہونا - (۱- عہدہ) (۱) میدان تنگ ہونا (۲) وقت کم ہونا۔

(۳) عاجز ہونا۔

عرصہ حشر - قیامت۔ حشر۔ قیامت کا میدان۔

عرصہ دراز - بہت مدت۔ بہت دن۔

عرصہ زیمت - (ف۔ ۱- مذ) زندگی۔ عمر۔

عرصہ سے - (۱- مٹ) فعل، مدت سے۔

عرصہ کھینچنا - دیر لگانا۔

عرصہ لگانا - (۱- عہدہ) دیر لگانا۔ تاخیر کرنا۔

عرصہ گاہ - میدان۔

عرصہ ہو جانا - (۱- عہدہ) مدت گز جانا۔ دیر ہو جانا۔

عرش - (ع۔ ۱- مٹ) (۱) وہ چیز جو دوسری چیز کی وجہ سے قائم ہو۔ برعکس جو ہر کے وہ بذات خود قائم ہے مثلاً رنگ اور کپڑا۔ اس میں رنگ

رنگ عرش ہے اور کپڑا جو ہر (۲) وہ بیماری جو کسی دوسرے مرض کے

سبب سے ہو جیسے درد نہر جو بخار کی وجہ سے ہو (۳) حادثہ۔

عرض - (ع۔ ۱- مٹ) (۱) بیان۔ گزارش۔ اظہار۔ التماس (۲) چوڑائی۔ چوڑائی

باٹ (۳) عرصہ۔ مدت۔ دفعہ (۴) آئنا۔ درسیان۔

عرض ارسال - وہ کاغذ جس کے ذریعے سے مال گزارا کسی کارندے یا پرہادے کے ہاتھ تحویل دار کے پاس بھیجی جاتی ہے۔ رپورٹ۔ نقشہ۔ چیک۔

عرض بلد - عرض البلد وہ فرضی خطوط جو خط استوا کے متوازی کھینچے جاتے ہیں۔ طول البلد کی تعین۔

عسکر۔ (عس۔ ک۔) (ع۔ ا۔) مذ (فوج۔ سپاہ۔ لشکر۔ جمع عساکر۔
عسکری۔ (عس۔ ک۔ ری) (ع۔ صفت۔ و۔ ا۔) مذ (۱) فوج کا۔ عسکر سے
منسوب (۳) سپاہی۔
عسکریت۔ (عس۔ ک۔ ری۔ یت) (ع۔ ا۔) صفت (جارجیت۔ جنگ پسندی
فوجی اور جنگی ذہنیت۔
عسل۔ (ع۔ سل) (ع۔ ا۔) مذ (شہد۔ انگبین۔
عسیر۔ (ع۔ سیر) (ع۔ صفت) مشکل۔
عسیر الحال۔ (ع۔ صفت) تنگ حال۔

عزت دار۔ عزت والا۔ (ع۔ ف۔ صفت) صاحب عزت۔ ذی مرتبہ۔
متناز۔ معزز۔
عزت دو کوڑی کی نہ رہنا۔ (۱) محاورہ (سمت ذلیل ہونا۔ بے عزتی ہونا۔
عزت ڈلونا۔ (۱) محاورہ (آبرو کھونا۔
عزت رکھ لینا۔ (۱) محاورہ (آبرو بچانا۔ عزت کی حفاظت کرنا۔
عزت کا لاگو ہونا۔ (۱) محاورہ کسی کی آبرو مٹانے کی کوشش کرنا۔
عزت کرنا۔ (۱) محاورہ (تفظیم و تکریم سے پیش آنا۔ آداب کرنا۔
عزت مآب۔ (ع۔ ا۔) صفت (ایک تعظیمی کلمہ جو وزیروں اور سفیروں کے
لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ آریہیل۔
عزت ملنا۔ (۱) محاورہ (شرف و بزرگی حاصل ہونا (۲) آؤ بگت ہونا۔
عزت میں بٹا لگنا۔ عزت میں فرق آنا۔ بے عزت ہونا۔
بے آبرو ہونا۔

ع — ش

عشا۔ (ع۔ ا۔) صفت (۱) رات کا اندھیرا (۲) رات کی نماز۔ سوتے کی نماز۔
عشائیدہ۔ (ع۔ ا۔) مذ (رات کا کھانا۔
عشائے ربانی۔ (ع۔ ا۔) مذ (وہ آفریں کھانا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے
اپنے حواریوں کے ساتھ کھایا تھا۔
عشاق۔ (عش۔ شاق) (ع۔ ا۔) مذ (عاشق کی جمع۔ چاہنے والے۔
عشیدہ۔ (عش۔ ہد) (ع۔ ا۔) مذ (ایک بوٹی جو مصفی خون ہے۔ سار سپر بلا۔
عشیر۔ (ع۔ صفت) دس۔ وہ۔
عشیر۔ (ع۔ ا۔) مذ (دسواں حصہ۔ وہ یک۔
عشیر کلمات۔ (ع۔ ا۔) مذ (حضرت رسول علیہ السلام کے دس احکام۔
عشیر عشیر۔ (۱) دسویں حصے کا دسواں حصہ بیلہ (۲) بہت تھوڑا سا۔
عشرت۔ (عش۔ رت) (ع۔ ا۔) صفت (۱) خوشی۔ عیش و نشاط۔ مزہ (۲)
حظ نفسانی۔ بشارت۔
عشرت آمیز۔ (ع۔ ا۔) صفت (خوشی سے بھرا ہوا۔
عشرت امروزلے اندیشہ فردا خوش است۔ (ع۔ ا۔) صفت (نیل) اگر گل کی
کوئی لکڑی ہو تو آج کا عیش اچھی چیز ہے۔
عشرت انتہا۔ (ع۔ ا۔) صفت (خوشی یا عیش سے ملتا جلتا۔
عشرت خانہ۔ (ع۔ ا۔) مذ (سرا۔ مکہ۔ گا کہ عیش و عشرت کرنے کا مقام۔
عشرت مٹانا۔ (۱) محاورہ (۱) مزے اڑانا۔ موح مارنا۔ چین کرنا (۲) بھونگنا۔
مباشرت کرنا۔

عزرائیل۔ (عز۔ را۔ ایل) (ع۔ ا۔) مذ (مک الموت۔ جان نکالنے
والا فرشتہ۔
عزل۔ (ع۔ ا۔) مذ (۱) سوتنی۔ برطنی۔ بیکاری۔ معطلی (۲) جماع کے
وقت فزج کی بجائے باہر مٹی لگانا۔
عزل و نصب۔ ترقی و تنزل۔ سوتنی و کمال۔
عزمت۔ (عزمت۔) (ع۔ ا۔) صفت (۱) غلوت۔ تنہائی (۲) عسکانف۔
عزمت نشیں۔ (ع۔ ا۔) مذ (گوشہ میں بیٹھا ہوا۔ تنہائی میں بیٹھا ہوا۔
عزیم۔ (ع۔ ا۔) مذ (تصد۔ ارادہ۔ نیت۔ جمع عزائم۔
عزیم بالجزم۔ (ع۔ ا۔) مذ (معتزم ارادہ۔ پکا ارادہ۔
عزیمت۔ (ع۔ ا۔) مذ (ارادہ۔ عزیم (۲) وہ بات جو فرض ہو۔
عزیمت۔ (ع۔ ا۔) مذ (عزیمت) (۱) پیارا۔ محبوب۔ دل پسند (۲) لائق۔
(۳) عمدہ۔ کم یاب۔ قابل عزت۔ صاحب مرتبہ (۴) خدا تعالیٰ کا ایک
نام (۵) رشتہ دار۔ قریبی (۶) بار۔ دوست۔ جمع: آبزیم۔
عزیمت القدر۔ (ع۔ ا۔) صفت (قابل قدر۔ عزیز۔ ایک العاقب جو چھوٹے بھائی
یا رشتہ دار کو کھاتا ہے۔
عزیمت داری۔ (ع۔ ا۔) صفت (رشتہ داری۔ بھائی بندی۔ یگانگت۔
عزیمت رکھنا۔ (۱) محاورہ (۱) قدر و منزلت کرنا (۲) دوست جمانا۔
عزیمت۔ (ع۔ ا۔) صفت (۱) عیش۔ (۲) طمسی دعا (۳) وہ عمل یا فاضل جس سے
مولوں کو محاضرات میں موجود کر سکیں (۴) ارادہ۔ مقصد۔ جمع: عزائم۔

ع — س

عشرہ۔ (عش۔ رت) (ع۔ ا۔) صفت (۱) دس۔ (۲) دس (۳) دس (۴) محرم کی دسویں
تاریخ۔ یوم عاشورہ۔
عشرہ اول۔ (ع۔ ا۔) مذ (بہینے کے پہلے دس دن۔ عمر کے پہلے دس سال۔
عشرہ کاہلہ۔ (ع۔ ا۔) مذ (عاشیوں کے دس روزے جو قربانی دینے کی استطاعت
نہ رکھنے والے تین حج سے پہلے اور سات اس کے بعد رکھتے ہیں۔
عشرہ مبشرہ۔ (ع۔ ا۔) مذ (رسول اللہ صلیم کے وہ دس صحابی جنہیں ان کی
زندگی میں ہی جنت کی بشارت دی گئی تھی۔
عش عش۔ (ع۔ ا۔) صفت (نبایت خوشی اور تحنیں و آفرین کے موقع پر بولا
جاتا ہے (کرتا کے ساتھ)۔

عساکر۔ (ع۔ سا۔ ک۔) (ع۔ ا۔) مذ (عسکر کی جمع۔ بہت سے لشکر۔
عسیر۔ (ع۔ ا۔) مذ (۱) دشواری۔ وقت مصیبت (۲) تنگی۔ منگی۔ غریبی۔
عسیرت۔ (عش۔ رت) (ع۔ ا۔) صفت (تنگی۔ منگی۔ دشواری۔
عس۔ (ع۔ ا۔) صفت (۱) مذ (کو قوال۔ شہر کے گرد گشت کرنے والا
ہمدہ دار۔

ع — ط

عطا - (ع. ط. عا) (ع. ۱-۱۰) (م. ۱۰) انعام بخشش - سناوت - کوئی چیز کسی کو دینا۔
 عطا کرنا (فرمانا) - (م. ص. مرکب) دینا - بخشنا - مرحمت کرنا - نعمت دینا۔
 عطا ہونا - (ا. محاورہ) ملنا - عنایت ہونا۔
 عطا ہو تو بہ لقاٹے تو - (م. ۱۰) (م. ۱۰) آپ کی چیز آپ ہی کو مبارک رہے۔
 عطاری - (ع. ط. عا) (ع. ۱-۱۰) (م. ۱۰) عطرفروش (۲) دوا فروش - جمع : عطاریاں۔
 عطاری کا شیشہ اور مداری کا پیٹارہ - (۱۰) (م. ۱۰) عطاری کی بوتل اور مداری کے پیٹارے کا کچھ اعتبار نہیں۔ ان میں سے ہر چیز بھل سکتی ہے۔
 عطاری - (ع. ط. عا) (ع. ۱-۱۰) (م. ۱۰) ایک ستارہ - دبیر فلک (۲) کیسیا گردوں کی اصطلاح میں - جست۔

عطاری - (ع. ط. عا) (ع. ۱-۱۰) (م. ۱۰) دوا فروش - عطاری کا پیشہ۔
 عطائی - (ع. ط. عا) (ع. ۱-۱۰) (م. ۱۰) وہ شخص جس نے کسی اُستاد کے بغیر اپنے شوق سے کوئی کام حاصل کیا ہو۔ لے اُستاد - آٹائی۔
 عطایا - (ع. ط. عا) (ع. ۱-۱۰) (م. ۱۰) تحفہ بخشش - انعام - عطیہ کی جمع۔
 عطری - (ع. ۱-۱۰) (م. ۱۰) خوشبو - ہلک - کسی چیز کی نکالی ہوئی خوشبو (۲) خلاصہ۔
 کُتِّ لباب - جو بہر - بخور - جمع : عطریات۔
 عطری امین - (ع. ۱-۱۰) (م. ۱۰) صفت خوشبو سے بھر ہوا - معطر۔
 عطری افشال - (ع. ۱-۱۰) (م. ۱۰) صفت خوشبو پھیلانے والا - پھٹکنے والا۔
 عطری بیزر - (ع. ۱-۱۰) (م. ۱۰) صفت خوشبو پھیلانے والا۔
 عطری بیزی - (ع. ۱-۱۰) (م. ۱۰) صفت خوشبو پھیلانا۔
 عطری پان کی تواضع - (۱۰) (م. ۱۰) عطاریاں سے مہمان کی خاطر مدارات کرنا۔
 عطری دان - (ع. ۱-۱۰) (م. ۱۰) وہ صندوقچی یا برتن جس میں عطری کی شیشیاں رکھی جائیں۔

عطری فروش - (ع. ۱-۱۰) (م. ۱۰) عطری بیچنے والا - گندھی۔
 عطری کا پھویا - (۱۰) (م. ۱۰) عطری میں ترکی ہوئی روٹی۔
 عطری کھینٹنا - (۱۰) (م. ۱۰) خوشبو کا تیل بذریعہ کشید نکالنا (۲) طاقت کھینچ لینا۔
 عطری نکالنا - (۳) جوہر نکالنا - خلاصہ نکالنا۔
 عطری گلدستہ (مجموعہ) - (ع. ۱-۱۰) (م. ۱۰) وہ عطری جو کئی قسم کے عطروں کو ملا کر تیار کیا جائے۔
 عطری میں بسانا - (۱۰) (م. ۱۰) خوشبو دار کرنا - بہت عطری نکالنا۔
 عطری نکالنا - (۱۰) (م. ۱۰) خلاصہ کرنا - ست نکالنا - جوہر نکالنا۔
 عطریات - (ع. ۱-۱۰) (م. ۱۰) عطریات - (ع. ۱-۱۰) (م. ۱۰) عطری کی جمع۔
 عطس - (ع. ۱-۱۰) (م. ۱۰) چھینکنا (۲) مرنا (۳) کڑوا کھا پھوٹنا۔
 عطسہ - (ع. ۱-۱۰) (م. ۱۰) چھینک۔
 عطسہ جاہ - (ع. ۱-۱۰) (م. ۱۰) کتوں سے گوج کی آواز کا آنا۔
 عطسہ شیب - (ع. ۱-۱۰) (م. ۱۰) عطسہ پڑھنا۔
 عطسہ ششہ - (ع. ۱-۱۰) (م. ۱۰) شیشے سے گلاس میں شراب ڈالنے کی آواز۔
 عطش - (ع. ۱-۱۰) (م. ۱۰) عطش (۱۰) پیاس - تشنگی۔

عطف - (ع. ۱-۱۰) (م. ۱۰) پھیرنا - موڑنا (۲) مہربانی (۳) کسی کلمے یا کلام کو دوسرے کلمے یا کلام کی طرف پھیرنا (۴) وہ حرف جو دو لفظوں یا کلموں کو ملائے۔
 پیسے اور - یا - و - وغیرہ۔
 عطف وقت - (ع. ط. عا) (ع. ۱-۱۰) (م. ۱۰) مہربانی - عنایت - کرم - نوازش - کرپا۔
 عطیہ - (ع. ط. عا) (ع. ۱-۱۰) (م. ۱۰) عطا بخشش - انعام دی ہوئی چیز۔
 عطیہ مسرکار - (ع. ۱-۱۰) (م. ۱۰) گورنٹ سے انعام میں ملا ہوا۔
 عطیہ دار - (ع. ۱-۱۰) (م. ۱۰) جمع جس کو عطیہ دیا جائے۔
 عطیہ سلطان - عطیہ شاہی - (ع. ۱-۱۰) (م. ۱۰) بادشاہ کا بخشا ہوا گورنٹ کا دیا ہوا۔

ع — ظ

عظام - (ع. ظ. عا) (ع. ۱-۱۰) (م. ۱۰) عظیم کی جمع - بزرگ (۲) عظیم کی جمع ہڈیاں - استخوان۔
 عظام - (ع. ظ. عا) (ع. ۱-۱۰) (م. ۱۰) بزرگ - کلاں - بڑا۔
 عظم - (ع. ۱-۱۰) (م. ۱۰) بڑی - اُستخوان - جمع : عظام۔
 عظمی - (ع. ظ. عا) (ع. ۱-۱۰) (م. ۱۰) عظیم کی تائید - سب سے بڑی - سب سے بزرگ۔
 عظمت - (ع. ظ. عا) (ع. ۱-۱۰) (م. ۱۰) بزرگی - بڑائی - شان و شوکت۔
 قدر و منزلت۔
 عظیم - (ع. ظ. عا) (ع. ۱-۱۰) (م. ۱۰) بڑا - کلاں - بزرگ - سخت - نہایت۔
 عظیم الجوشہ - (ع. ۱-۱۰) (م. ۱۰) صفت فریب - موٹا - جس کا قد و قامت بڑا ہو۔
 عظیم الشان - (ع. ۱-۱۰) (م. ۱۰) بڑی شان و شکوہ والا - والا قدر - بہت بڑا۔
 عظیم القدر - (ع. ۱-۱۰) (م. ۱۰) بڑے رتبے یا طاقت کا۔

ع — ف

عفاریت - (ع. ف. عا) (ع. ۱-۱۰) (م. ۱۰) عفریت کی جمع - دیو - جھوت۔
 عفاف - (ع. ۱-۱۰) (م. ۱۰) ہمہ گیر گاری - پارسی۔
 عفاف - (ع. ۱-۱۰) (م. ۱۰) پوشیدگی۔
 عففت - (ع. ف. عا) (ع. ۱-۱۰) (م. ۱۰) ہمہ گیر گاری - صحت - پارسی۔
 پاک دامنی۔
 عففت مآب - (ع. ۱-۱۰) (م. ۱۰) بڑی عزت والی - پارسا - عقیدہ۔
 عففت میں نعل ڈالنا - (۱۰) (م. ۱۰) عزت لینا - عصمت بگاڑنا۔
 عفریت - (ع. ف. عا) (ع. ۱-۱۰) (م. ۱۰) دیو - جھوت - پریت۔
 عفض - (ع. ۱-۱۰) (م. ۱۰) ایک درخت (۲) اس کا پھل۔
 عفت عفت - (ع. ۱-۱۰) (م. ۱۰) کتے کی آواز۔
 عفو - (ع. ۱-۱۰) (م. ۱۰) معافی بخشا بخشش۔
 عفو کرنا - (۱۰) (م. ۱۰) معاف کرنا - بخشنا - درگزر کرنا۔

عقدہ سلجھانا - (۱) محاورہ) مشکل حل ہونا۔
 عقدہ کشا - (ف. ۱) مذ) مشکل آسان کرنے والا۔
 عقدہ کشائی - (ع. ف. ۱) صفت) گرہ کھولنا۔ مشکل آسان کرنا مسئلہ حل کرنا۔
 عقدہ کھل جانا - (۱) محاورہ) بھید کھل جانا۔ مسئلہ حل ہو جانا۔
 عقدہ مالا تھیل - (ع. ۱) مذ) وہ مشکل مسئلہ جو حل نہ ہو۔ عقدہ لامل۔
 عققر - (ع. ۱) مذ) بانجھ پن (۲) وہ ہر جہہ کسی غیر عورت کو اپنی بیوی سمجھ کر
 جماع کرنے سے واجب آتا ہے۔
 عقرب - (عق. رب) (ع. ۱) مذ) (۱) کچھو۔ کڑوم (۲) آسمان کا آٹھواں برج۔
 عقربی - (عق. ربی) (ع. ۱) مذ) ایک قسمتی پتھر۔ لعل کی ایک قسم۔
 عققر قرحا - (ع. قرق. ح) (ع. ۱) مذ) ایک تیز دوا جو دانتوں کے درد
 میں کام آتی ہے۔

عقوگہ - (ع. ف. ۱) مذ) گناہ کی معافی۔
 عقونٹ - (ع. قونٹ) (ع. ۱) صفت) بڑ بڑ گنگی۔ مٹاندا۔
 عقی عنہ - (ع. ف. ی. عن) (ع. ۱) صفت) اس پر معافی کی جائے۔ خدا اس کے
 گناہ معاف کرے۔
 عقیف - (ع. عیف) (ع. صفت) پاسار مرد۔ اردو میں زیادہ تر اس کی
 مؤنث ہی مستعمل ہے۔
 عقیض - (ع. قی. ق) (ع. صفت) و۔ ا) صفت) پاسار عورت۔ پریسز گار
 عورت۔ باصحت عورت۔

ع - ق

عقل - (ع. ۱) صفت) دانائی۔ فہم۔ شعور۔ تیز۔ سمجھ۔ نفس ناطقہ۔ ادراک۔
 عقل آنا - (۱) محاورہ) سمجھ آنا۔ تیز ہونا۔ سمجھ حاصل ہونا۔
 عقل آرائی - (ع. ۱) صفت) سوچنا۔ عقل دوڑانا۔
 عقل بڑی کھینس - (۱) صفت) دظرائف) بے مکی بات کہنے پر کہتے ہیں۔
 عقل پر پتھر پڑنا - (۱) محاورہ) عقل جاتی رہنا۔ غلطی کرنا۔
 عقل پر پردہ پڑ جانا - (۱) محاورہ) سمجھ جاتی رہنا۔ غلطی ہونا۔
 عقل کھڑنا - (۱) محاورہ) ہوش میں آنا۔ شعور آنا۔ تربیت پانا۔
 عقل ٹھکانے نہ رہنا - (۱) محاورہ) عقل جاتی رہنا۔
 عقل جاتی رہنا - (۱) محاورہ) گھرا جانا۔ ہوش جانا۔ حواس بانستہ ہونا۔
 عقل پرخ میں آنا - عقل پھیرنا - (۱) محاورہ) ہوش کم ہونا گھرا جانا۔
 حیران دہریشان ہو جانا۔
 عقل چرے جانا - (۱) محاورہ) سمجھ نہ رہنا۔ عقل کا موجود نہ ہونا۔
 عقل چہ گستی است کہ پیش مرداں بیاید - (۱) مثل) بے عقل کی باتیں
 کرنے والے کے متعلق کہتے ہیں۔
 عقل چھو نہیں گئی - (۱) محاورہ) بے وقوف ہے۔ بے عقل ہے۔
 عقل خراج کرنا (دوڑانا) - (۱) محاورہ) سمجھ سے کام لینا۔ فکر کرنا۔
 عقل دنگ ہونا - (۱) محاورہ) کوئی بات سمجھ میں نہ آنا۔ حیران ہونا۔
 عقل دینا - (۱) محاورہ) سمجھ کی بات بتانا۔ تدبیر سمجھانا۔ تربیت کرنا۔
 عقل ڈاڑھ - (۱) صفت) وہ ڈاڑھ جو انسان کے جوان ہونے پر ظاہر
 ہوتی ہے۔
 عقل رفوچگر ہو جانا - (۱) محاورہ) حواس کم ہونا۔ اوسان خطا ہونا۔
 عقل زائل ہو جانا (ہونا) - (۱) محاورہ) عقل جاتی رہنا۔
 عقل سٹھیا جانا - (۱) محاورہ) بڑھاپے کے باعث عقل کم ہونا۔
 عقل سلیم - (ع. ۱) صفت) پوری عقل۔ رائے صائب۔
 عقل ششدر ہونا - (۱) محاورہ) حیران ہونا۔
 عقل کا اندھا گانٹھ کا پورا - (۱) صفت) بے وقوف مالدار۔
 عقل کا پتلا - (۱) صفت) نہایت عقل مند۔
 عقل کا پورا - (۱) صفت) (ظن) بالکل بے وقوف۔ احمق۔ کاٹھ کا اٹوڑ۔
 عقل کا پتراع کل ہو جانا - (۱) محاورہ) سمجھ میں فرق آ جانا۔ عقل کا زائل ہو جانا۔

عقاب - (ع. ۱) مذ) دگھ۔ تکلیف۔ عذاب۔
 عقاب - (ع. ق) (ع. ۱) مذ) ایک طاقت ور اور بلند پرواز شکاری
 پرند (۲) کیمیا گروں کی اصطلاح میں روشاد (۳) اڑتی جگہ (۴) حضرت
 رسول اللہ علیہ وسلم کا ایک بھٹا۔
 عقابی - (ع. ق) (ع. ۱) صفت) عقاب کی مانند۔ عقاب سے منسوب۔
 عقابی نظر (نگاہ) - (ع. ف. ۱) مذ) بہت تیز نظر۔
 عقابین - (ع. ۱) مذ) جرم کو باذبحہ کی دو اڑتی کھلیاں۔
 عقارب - (ع. ق) (ع. ۱) صفت) عقاب کی جمع۔ پتھو۔
 عقابڈ - (ع. ق) (ع. ۱) صفت) عقاب کی جمع۔ مذہب کے اصول۔
 عقاب - (ع. ۱) مذ) سمجھ۔ پس پشت۔
 عقبتہ - (ع. ۱) صفت) اڑتی اور لمبی پہاڑی جس کی چوٹی تک راستہ جاتا ہو۔
 شکل گھائی۔
 عقبتہ - (ع. ق) (ع. ۱) صفت) آخرت۔ حاجت۔
 عقدہ - (ع. ۱) مذ) (۱) گرہ۔ گانٹھ (۲) قول و قرار۔ شادی۔ نکاح (۳)
 فروخت۔ بیع۔
 عقدہ اٹامل - (ع. ۱) مذ) انگلیوں پر گھنا۔ شمار کرنا۔
 عقدہ بندی - (ع. ف. ۱) صفت) نکاح۔ جھوٹا کرنا۔
 عقدہ بیع - (ع. ۱) مذ) فروخت کا اقرار نامہ۔
 عقدہ سیاس - (ع. ف. ۱) مذ) کیمیا کی اصطلاح میں پارے کی گولی بانڈھنا
 پارے کی گولی۔
 عقدہ کرنا - (۱) محاورہ) نکاح کرنا۔ بیاہ کرنا۔
 عقدہ نامہ - (ع. ۱) مذ) نکاح اور شادی کی دستاویز۔
 عقدہ - (ع. ۱) مذ) ڈار۔ گلو بند۔
 عقدہ پرورین یا ثریا - (ع. ۱) مذ) چھ ستاروں کا جھرمٹ۔
 عقدہ - (ع. ق) (ع. ۱) مذ) (۱) گرہ۔ گانٹھ (۲) مشکل بات پیچیدہ بات۔
 معا۔ دقیقہ (۳) بھید (۴) پھیرنا۔
 عقدہ حل ہونا - (۱) محاورہ) گرہ کھلنا۔ مشکل دور ہونا۔
 عقدہ سر بستہ - (ع. ۱) مذ) خفیہ راز۔

علاقہ ہندی - اوج -
 علاقہ - دہلی - لاہور - (ع-ج) صنف ماں کی طرف سے سوتیلہ بھائی یا سوتیلی بہن
 (جیسے علاقہ بھائی اور علاقہ بہن)۔
 علاج - (ع-ج) علاج - (ع-ا) مذ (۱) چارہ - آپائے (۲) تدبیر - درستی (۳)
 بیماری کی دوا دارو - معالجہ (۴) سزا - پاداش -
 علاج بالصدف - مرض کی تاثیر کے برعکس علاج کرنا - یونانی یا ڈاکٹری علاج -
 علاج بالمثل - مرض کی تاثیر کے مطابق علاج کرنا - ہومیوپیتھی علاج -
 علاج پذیر - (ع-ف) صنف جس کا علاج ہو سکے - علاج کے قابل -
 علاج معالجہ - (ع-ا) مذ (۱) دوا دارو - چارہ -
 علاجہ کی - (ف-ا) مٹھ - دیکھئے علیحدگی - کھلائی -
 علاجہ - (ع-لا-ج) (۵) (ع-ج) صنف دیکھئے علیحدہ - الگ - جدا -
 علاقہ - (ع-لا-ق) (ع-ا) مذ (۱) تعلق - لگاؤ - رابطہ - دوستی - رشتہ -
 (۲) سردکار - نسبت (۳) نوکری - عہدہ - کام (۴) ضلع - صوبہ - پرگنہ -
 احاطہ (۵) ملکیت - قبضہ - زمینداری (۶) جائیداد - ریاست (۷) حکومت
 (۸) حدود - سرحد -
 علاقہ اٹھ جانا - (۱) محاورہ تعلق نہ رہنا - علاحدگی ہو جانا -
 علاقہ چھٹنا - (۱) محاورہ تعلق نہ رہنا -
 علاقہ دار - (ع-ف) (ع-ا) مذ (۱) رشتہ دار - قریبی (۲) تعلق دار - ذیل دار -
 علاقہ رکھنا - (۱) محاورہ تعلق رکھنا - واسطہ رکھنا - نسبت رکھنا -
 علاقہ رہنا - (۱) محاورہ مطلب رہنا - تعلق رہنا -
 علاقہ قطع ہونا - (۱) محاورہ تعلق نہ رہنا -
 علاقہ ملنا - (۱) محاورہ جاگیر ملنا - علاقہ سپرد ہونا - حلقہ ملنا -
 علاقہ ہونا - (۱) محاورہ علاقہ ملنا (۲) جائیداد ملنا (۳) واسطہ ہونا -
 علاقہ - (ع-لا-ق) (ع-ا) مذ (۱) کسی چیز سے بندھی ہوئی یا نگی ہوئی چیز -
 تلوار کا ڈورا - کوڑے یا راکب کا تسمہ - حلقہ - طرہ - دستار -
 علاقہ بند - پٹوا - زلور میں ڈورا ڈالنے والا -
 علاقہ بندی - پٹوے کا کام - پٹواری -
 علاقہ - (ع-لا-کت) (ع-ا) مٹھ (بیماری) دکھ - روگ - مانڈگی -
 علام - (ع-لام) (ع-ا) مذ (۱) بہت جاننے والا - ہر بات سے واقف -
 علام الغیوب - (ع-صنف) غیب دان چھپی ہوئی باتیں جاننے والا -
 علامات - (ع-لامات) (ع-ا) مٹھ (ع-ا) علامت کی جمع - نشانیاں -
 علامت - (ع-لامت) (ع-ا) مٹھ (۱) نشان - مارک (۲) پتا (۳)
 سرائے - کھوج (۴) اشارہ - کنایہ (۵) چھاپ - پتھر - لیبل (۶) آثار
 (بیماری کے) (۷) جمع تقریباً ضرب تقسیم کا نشان (۸) ایسی کا نشان
 (۹) ناسیے کا نشان - سیل کا پتھر -
 علامت مبلوغ - (ع-ف-ا) مٹھ (بیماری) جوانی کی نشانی - ڈارٹھی مچھکا نکلنا -
 علامت تذکیر و تانیث - مذدمٹ (زرد مادہ) پہچاننے کی نشانی -
 علامہ - (ع-لام) (ع-صنف) (۱) بہت جاننے والی (عورت) فاضلہ (۲)
 بنایت چالاک اور عیار (عورت) (۳) (ع-لام) بنایت دانہ اور فاضل مرد -
 (۴) بنایت چالاک اور مکار آدمی -

علامہ دہبر - علامہ الدہبر - (ع-ف-ا) مذ (۱) زمانے کا فاضل - بہت
 بڑا عالم (۲) بنایت چالاک - عیار - مکار -
 علامی - (ع-لام) (ع-ا) مٹھ (بیماری) بہت بڑا عالم - علامہ - اکبر اعظم کے وزیر
 ابو الفضل کا خطاب -
 علامیہ - (ع-لامین) (ع-صنف) (بیماری) خواہر آشکارا - حکم کھلا - سب کے
 سامنے - برسر عام -
 علاوہ - (ع-لا-وہ) (ع-تابع) (۱) ماسوا - سوا (۲) اور - اور پر - فالتو - زیادہ
 اور بھی (۳) درود میں بلیغ اذیل مستعمل ہے -
 علاوہ ازیں - علاوہ بریں - (ع-متعلق فعل) اس کے سوا - باوجودیکہ -
 علائق - (ع-لام) (ع-ا) مذ (۱) علاقہ کی جمع - بکچھڑے - تعلقات -
 علائق سے چھوٹنا - (۱) محاورہ تعلقات سے بچنا -
 علت - (ع-ل) (ع-ا) مٹھ (۱) بیماری - دکھ - روگ (۲) وجہ -
 سبب - باعث (۳) خواب اور ناکارہ چیز (۴) جھگڑا - بکچھڑا (۵) عادت بد
 لت (۶) عیب - نقص (۷) الزام - بہتان (۸) کوڑا کرکٹ -
 خس و خاشاک -
 علت اُبنہ - (ع-ا) مٹھ (بیماری) بد کرنے کی عادت - انعام کرنے
 کی عادت - بولیں -
 علت تامہ - (ع-ا) مٹھ (بیماری) کامل - پورا سبب -
 علت صوری - (ع-ا) مٹھ (بیماری) سبب - صورت اختیار کرنے کی وجہ -
 علت غائی - (ع-ا) مٹھ (۱) نتیجہ - حاصل - حاصل - مقصود اصل (۲)
 فائدہ - پھل (۳) سبب - وجہ -
 علت خارجی - (ع-ا) مٹھ (بیماری) ایجاد - وہ سبب جس سے کوئی شے
 بنائی گئی ہو -
 علت لگایا - (۱) محاورہ (۱) عادت ڈال لینا (۲) اپنے پیچھے لگایا -
 عذاب مولیٰ لینا -
 علت مشاخ - (ع-ا) دیکھئے علت اُبنہ -
 علت معلول - سبب و سبب -
 علت جوٹا - (۱) محاورہ (عادت) جوٹا - بیماری جوٹا -
 علتی - (ع-ل) (ع-ا) مٹھ (بیماری) عیب دار - بڑی عادتوں والا - شریر -
 علت - (ع-ا) مذ (۱) گھاس - گیہا - چارہ -
 علت زار - (ع-ف-ا) مذ (۱) چرا گاہ - چرانے کی جگہ -
 علت - (ع-ل) (ع-ا) مٹھ (بیماری) علت کی جمع - اسباب -
 علم - (ع-لم) (ع-ا) مذ (۱) جھنڈا - نیزہ - نشان - جھنڈی (۲) وہ نام جس
 سے آدمی مشہور ہو - خاص نام (۳) مشہور - الم شرح - رسوا - بد نام -
 (۴) برہنہ - بے خلاف (۵) بلند کرنا - اُونچا کرنا - جمع : اعلام -
 علم اٹھنا - (۱) محاورہ محترم میں شہدائے کربلا کی یاد میں جھنڈا نکلنا -
 علم ادب - (ع-ا) مذ (۱) کسی زبان کی نثر و نظم کی کتابیں جو کسی خاص علم سے
 تعلق رکھتی ہوں مگر ان کی زبان اعلیٰ ہو -
 علم القسانی - (ع-ا) مذ (۱) وہ علم جو اپنی محنت سے حاصل کیا گیا ہو -
 علم ابردار - (ع-ف-صنف) جھنڈا اٹھا کر چلنے والا (۲) پیش پیش (۳)

حضرت عباس ابن علی جو معرکہ کربلا میں امام حسین کے علمبردار تھے۔
 علم لوطی (ج-۱-۱) حضرت عباس کی مار پڑنا۔
 علم دار (ج-۱-۲) (ف-صفت) (۱) وہ شخص جو جھنڈا لے کر آگے چلے۔ جھنڈا اٹھانے والا (۲) حضرت عباس ابن حضرت علی کا لقب۔
 علم کرنا (ج-۱-۳) (م-مادہ) تلوار ننگی کرنا۔ تیغ یا تلوار کو میان سے نکالنا (۴) بلند کرنا۔ اونچی کرنا۔
 علم ہونا (ج-۱-۴) (م-مادہ) مشہور ہونا۔ رسوا ہونا۔ بدنام ہونا۔
 علم (ج-۱-۵) (م-مادہ) (۱) دانش۔ (۲) دانائی۔ (۳) واقعیت۔ (۴) آگاہی (۵) ہنر۔ فن۔ جوہر۔ (۶) جادو۔ (۷) مقرر (۸) عمل تسمیر۔ جمع علوم۔
 علم اخلاق (ج-۱-۶) (م-مادہ) وہ علم جس کے ذریعے سے لوگوں کی عادات درست ہوں۔ نشست و برخاست کے طریقے۔
 علم افعال الاعضاء (ج-۱-۷) (م-مادہ) وہ علم جو نباتات و حیوانات کے اعضاء سے بحث کرے۔ (Anatomy)
 علم الابدان (ج-۱-۸) (م-مادہ) اعضاء کی بناوٹ اور ان کے افعال کا علم۔
 علم الحقیقت (ج-۱-۹) (م-مادہ) وہ علم جو حقائق اشیاء سے بحث کرتا ہے۔ (Theology)
 علم الاسماء (ج-۱-۱۰) (م-مادہ) ناموں کا علم۔
 علم بلاغت (ج-۱-۱۱) (م-مادہ) تقریر کرنے کا علم۔
 علم المعیشت (ج-۱-۱۲) (م-مادہ) معاشیات۔ اقتصادیات کا علم۔ (Economies)
 علم النفس (ج-۱-۱۳) (م-مادہ) دیکھے نفسیات۔
 علم الوجوه (ج-۱-۱۴) (م-مادہ) قیافہ۔ چہرہ دیکھ کر حالات معلوم کرنے کا علم۔
 علم الہی (ج-۱-۱۵) (م-مادہ) وہ علم جس میں ان امور سے بحث کی جائے جو وجود خارجی یا عقل میں مادہ کے محتاج نہ ہوں۔
 علم الیقین (ج-۱-۱۶) (م-مادہ) کسی چیز کی کیفیت اور ماہیت سے پوری پوری آگاہی۔
 علم باطن (ج-۱-۱۷) (م-مادہ) وہ علم جس سے خدا شناسی حاصل ہو۔
 علم حرکت (ج-۱-۱۸) (م-مادہ) وہ علم جو حرکت سے بحث کرتا ہے۔ (Dynamics)
 علم حیوانات (ج-۱-۱۹) (م-مادہ) وہ علم جس میں حیوانات کے حالات کا ذکر ہو۔ (Zoology)
 علم در سینہ باید نہ در سینہ رن (مقولہ) علم سینے میں ہونا چاہیے۔
 نہ کہ کتابوں میں یعنی پڑھا ہوا یاد ہونا چاہیے۔
 علم طب (ج-۱-۲۰) (م-مادہ) (۱) دوائیوں کا علم۔
 علم طبعی یا طبیعیات (ج-۱-۲۱) (م-مادہ) وہ علم جس میں چیزوں کی خاصیت کا ذکر ہو۔ (Physics)
 علم غیب (ج-۱-۲۲) (م-مادہ) پوشیدہ باتوں کا علم مستقبل کا علم۔
 علم فقر الغص (ج-۱-۲۳) (م-مادہ) (۱) وراثت کا علم۔
 علم کلام (ج-۱-۲۴) (م-مادہ) مذہبی امور کو دلائل سے ثابت کرنا۔ مذہبی بحث و مناظرہ کا علم۔
 علم کیمیا (ج-۱-۲۵) (م-مادہ) چیزوں کے اجزاء اور بناوٹ کا علم (۲) معمولی وصا کرتے سونا بنانے کا علم۔ (Chemistry)

علم لدنی (ج-۱-۱) (م-مادہ) وہ علم جو کسی کو خدا کی طرف سے براہ راست بخیر اُتادھا حاصل ہو۔
 علم لغت (ج-۱-۲) (م-مادہ) الفاظ کی بناوٹ اور معانی کا علم۔
 علم مجلس (ج-۱-۳) (م-مادہ) مجلس میں نشست و برخاست اور برتاؤ کا علم۔
 علم نباتات (ج-۱-۴) (م-مادہ) وہ علم جس میں نباتات کے متعلق باتیں ہوں (انگ) (Botany)
 علم نجوم (ج-۱-۵) (م-مادہ) ستاروں کا علم (انگ) (Astronomy)
 علم وہبی (ج-۱-۶) (م-مادہ) خدا داد علم جس میں کوشش کو دخل نہ ہو۔
 علم ہندسہ (ج-۱-۷) (م-مادہ) خطوط اور زاویوں کا علم۔ (Geometry)
 علم (ج-۱-۸) (م-مادہ) (۱) عالم کی جمع۔ عالم فاضل لوگ۔
 علمی (ج-۱-۹) (م-مادہ) (۱) علم سے منسوب۔ علم سے متعلق۔
 علمییت (ج-۱-۱۰) (م-مادہ) (۱) علم ہونا۔ بدیا۔ علم۔
 علمییت بگھارنا (ج-۱-۱۱) (م-مادہ) اپنے علم کا رعب ڈالنا۔ موقع بے موقع اپنا صاحب علم ہونا ظاہر کرنا۔
 علم (ج-۱-۱۲) (م-مادہ) (۱) بلندی۔ اونچائی۔ برتری۔ رفعت۔
 علم ہمت (ج-۱-۱۳) (م-مادہ) (۱) عالی ہمتی۔ بلند ہمتی۔ ارادے کی بلندی۔
 علم فہ (ج-۱-۱۴) (م-مادہ) (۱) نو۔ (۲) (م-مادہ) (۱) راتب۔ مجتہد۔ وظیفہ۔ روزینہ۔
 علم فنی (ج-۱-۱۵) (م-مادہ) (۱) ٹکنہ۔ نطفہ قرار پانا۔
 علم فوم (ج-۱-۱۶) (م-مادہ) (۱) علم کی جمع۔ ہمزون۔
 علوم جدیدہ (ج-۱-۱۷) (م-مادہ) وہ علم جو زمانہ حال میں ایجاد ہوئے ہیں۔
 علوم رسمی (ج-۱-۱۸) (م-مادہ) (۱) راجح الوقت علم۔
 علوم قدیمہ (ج-۱-۱۹) (م-مادہ) وہ علوم جو زمانہ قدیم سے چلے آتے ہیں۔
 علوم امتحانہ (ج-۱-۲۰) (م-مادہ) وہ علوم جو آپس میں ایک دوسرے سے مخالفت یا رابطہ رکھتے ہوں۔
 علوم متعارفہ (ج-۱-۲۱) (م-مادہ) وہ مشہور و معروف اور صریح باتیں جو دلیل کی بنیاد قائم کرنے کے لیے اختیار کی جائیں۔
 علوم مشرقی (ج-۱-۲۲) (م-مادہ) وہ علوم جن کی ابتدا مشرقی ممالک میں ہوئی۔
 علوم مغربی (ج-۱-۲۳) (م-مادہ) وہ علوم جن کی ابتدا مغرب میں ہوئی۔
 علوی (ج-۱-۲۴) (م-مادہ) (۱) وہ شخص جو حضرت علی کی نسل سے ہو مگر حضرت فاطمہ کے بطن سے نہ ہو۔
 علوی (م-مادہ) (۱) (۲) ستارہ آسمانی (۳) (صفت) فنی (۴) اعلیٰ درجہ کا۔
 علویت (ج-۱-۲۵) (م-مادہ) (۱) علم سے منسوب۔ (۲) علم سے منسوب۔
 علمی (ج-۱-۲۶) (م-مادہ) (۱) اونچا۔ بلند (۲) (م-مادہ) (۳) فیلسفہ چہارم۔
 علمی بند (ج-۱-۲۷) (م-مادہ) (۱) کلائی یا بازو کا ایک زبور (۲) کشتی کا ایک بیچ۔ (۳) ایک تعویذ۔
 علمی علی کرنا (ج-۱-۲۸) (م-مادہ) لڑتے وقت علی علی کا نعرہ لگانا۔ کوئی مشکل کام کرتے وقت علی کے نام کا نعرہ لگانا۔
 علمی (ج-۱-۲۹) (م-مادہ) (۱) لڑائی۔ (۲) حرف چہرے۔ (۳) پیر۔ (۴) اور۔ (۵) بالا۔
 علمی الاتصال (ج-۱-۳۰) (م-مادہ) (۱) متواتر۔ (۲) چلے دوپے۔ لگاتار۔ (۳) سہ کر۔

علی الاطلاق۔ (ع۔ متعلق فعل) مطلق۔ بے قید۔ آزاد۔ بلا شرط۔
 علی الاعلان۔ (ع۔ متعلق فعل) گواہوں کے رُو برو۔ علانیہ طور پر۔
 بے روک ٹوک۔
 علی التحقيق۔ (ع۔ متعلق فعل) ٹھیک طور پر۔ یقیناً۔
 علی التوکل۔ (ع۔ متعلق فعل) اختیار کر کے۔ بھروسہ کر کے۔
 علی الابهال۔ (ع۔ تابع فعل) بھلاؤ۔ بالاشرک۔ بشمول۔
 علی الحساب۔ (ع۔ ا۔ مذ) پھلتے ہوئے حساب میں۔ بلا حساب چکائے چھیل
 علی الحساب دینا۔ قبل از حساب دینا۔ بج کے طور پر دینا۔ پیشگی دینا۔
 بلا حساب دینا۔

اور بزرگوں کے نام کے ساتھ لکھا جاتا ہے۔
 علیہ السلام (التسلیم)۔ اس پر سلام یعنی خدا کی عنایت ہو۔
 علیہم السلام۔ ان سب پر خدا کا سلام ہو۔ (۲) پیغمبروں کے نام کے ساتھ
 لکھا جاتا ہے۔ بطور اختصار صرف ۷ ہی لکھے ہیں۔
 علیہ الصلوٰۃ والسلام۔ (ع۔ مضافاً) اس پر خدا کی رحمت اور سلام ہو۔
 علیہم۔ (ع۔ جار مجرور) ان پر۔
 علیہم السلام۔ (ع۔ مضافاً) ان سب پر خدا تعالیٰ کا سلام۔
 علیہم الرضوان۔ (ع۔ مضافاً) ان سب پر اللہ کی رضامندی ہو۔
 علیہم۔ (ع۔ لی۔ بین) (ع۔ ا۔ مضافاً) (۱) ہیشت کا نام۔ آفتواں آسمان (۲)
 علیہ کی جمع۔ جنت کے اُوپنے اُوپنے مکان یا اس کی کھڑکیاں۔

علی الخصوص۔ (ع۔ متعلق فعل) خاص کر۔ خصوصاً۔
 علی الدوام۔ (ع۔ متعلق فعل) ہمیشہ ہمیش کے لیے۔ دوامی۔ دائمی۔
 علی الرأس والعین۔ (ع۔ متعلق فعل) سر آنکھوں پر۔ بخوشی۔
 علی الزعم۔ (ع۔ متعلق فعل) برخلاف۔ برعکس۔ مقابلے میں۔ باوجود اس کے۔
 علی الصباح۔ (ع۔ متعلق فعل) بہت سویرے۔ تراکے ہی۔ نور کے تراکے۔
 علی العموم۔ (ع۔ متعلق فعل) عموماً۔ عام طور پر۔
 علی الحالہ۔ (ع۔ متعلق فعل) بدستور۔ اپنی کچھلی حالت پر۔
 علی رؤس الأشباد۔ (ع۔ متعلق فعل) گواہوں کے رُو برو۔ علی الاعلان۔ علانیہ۔
 علی قدر مراتب۔ (ع۔ متعلق فعل) حسب مرتبہ حیثیت یا مرتبہ کے مطابق۔
 علی کل شئ قدير۔ (ع۔ متعلق فعل) خدا کی تعریف۔ وہ ہر شے پر قادر ہے۔
 علی وجه البصیرت۔ (ع۔ متعلق فعل) بصیرت سے۔ بصیرت کے طور پر۔
 علی وجه التفصیل۔ (ع۔ متعلق فعل) مفصل طور سے۔ تفصیل سے۔
 علی وجه العموم۔ (ع۔ متعلق فعل) ہر جگہ۔ عموماً (۲) سارے۔
 علی ہذا القیاس۔ (ع۔ متعلق فعل) اسی طرح۔ اسی قیاس پر۔

ع۔ م۔

عجم۔ (ع۔ ا۔ مذ) چچا۔ باپ کا بھائی۔ عمو۔
 عجم زادہ۔ (ع۔ ف۔ صفت) چچا زادہ۔ چچا کا بیٹا۔
 عجمی۔ (ع۔ صفت) چچا سے منسوب (۲) (ذ۔ مذ) چچا۔
 عماد۔ (ع۔ مذ) (۱) ستون (۲) اعتبار۔ اعتماد (۳) اُوپنے مکان۔
 عمارات۔ (ع۔ ما۔ م۔ رات) (ع۔ ا۔ مضافاً) عمارت کی جمع۔ مکان۔ گھر۔ وہ چیز
 جو تعمیر کی جائے۔
 عمارت۔ (ع۔ ما۔ م۔ رت) (ع۔ ا۔ مضافاً) آبادی۔ بستی (۲) مکان۔ محل۔ مسکن۔ گھر۔
 عمارتی۔ (ع۔ ما۔ م۔ رت) (ذ۔ مضافاً) عمارت سے متعلق۔
 عماری۔ (ع۔ م۔ م۔ رت) (ع۔ ا۔ مضافاً) عمارت کا جو دار۔ جو دار۔
 عمال۔ (ع۔ م۔ م۔ مال) (ع۔ ا۔ مذ) عامل کی جمع۔ حاکم۔ روپیہ تقسیم کرنے والے
 عہدہ دار۔ تحصیل دار۔
 عماسہ۔ (ع۔ ما۔ م۔ رت) (ع۔ ا۔ مذ) پرگٹی۔ دستار۔ سر پہنچ (اُردو میں بفتح آدل
 مستعمل ہے)۔

علیاً۔ (ع۔ مل۔ یا) (ع۔ صفت) اعلیٰ۔ بزرگ۔
 علیحدگی۔ (ع۔ لا۔ ج۔ مذ) (ع۔ ف۔ مضافاً) تنہائی۔ خلوت۔ (۲) یہ
 لفظ فارسی والوں نے عربی "علی حدہ" (اپنی حد پر۔ جدا۔ الگ)
 سے بنایا ہے۔

عمامہ اتارنا۔ (ع۔ ما۔ م۔ رت) (ع۔ ا۔ مذ) (۱) الگ (۲) سوا (۳) تنہائی
 میں (۴) شرکت سے باہر اصل میں علی حدہ تھا یعنی اپنی حد پر۔ جدا۔ الگ۔
 علیحدہ علیحدہ۔ (ع۔ ف۔ صفت) جدا جدا۔ الگ الگ۔
 علیحدہ کرنا۔ (ع۔ ما۔ م۔ رت) (ع۔ ا۔ مذ) (۱) الگ کرنا (۲) موقوف کرنا (۳) انتخاب کرنا پھاٹنا۔
 علیک۔ (ع۔ نیک) (ع۔ مضافاً) تجھ پر۔
 علیک سلیک۔ (ع۔ مضافاً) صاحب سلامت۔ معمولی واقفیت۔
 علیلی۔ (ع۔ لیل) (ع۔ صفت) مریض۔ بیمار۔ دکھیا۔ روگی۔
 علیم۔ (ع۔ لیم) (ع۔ صفت) (۱) دانا۔ جاننے والا۔ عالم۔ واقف (۲) علم والا۔
 انیض۔ صاحب علم۔
 علیہ۔ (ع۔ لے۔ ہ) (ع۔ حرف جر) اُس پر۔

عمامہ اتارنا۔ (ع۔ ما۔ م۔ رت) (ع۔ ا۔ مذ) (۱) الگ (۲) سوا (۳) تنہائی
 میں (۴) شرکت سے باہر اصل میں علی حدہ تھا یعنی اپنی حد پر۔ جدا۔ الگ۔
 علیحدہ علیحدہ۔ (ع۔ ف۔ صفت) جدا جدا۔ الگ الگ۔
 علیحدہ کرنا۔ (ع۔ ما۔ م۔ رت) (ع۔ ا۔ مذ) (۱) الگ کرنا (۲) موقوف کرنا (۳) انتخاب کرنا پھاٹنا۔
 علیک۔ (ع۔ نیک) (ع۔ مضافاً) تجھ پر۔
 علیک سلیک۔ (ع۔ مضافاً) صاحب سلامت۔ معمولی واقفیت۔
 علیلی۔ (ع۔ لیل) (ع۔ صفت) مریض۔ بیمار۔ دکھیا۔ روگی۔
 علیم۔ (ع۔ لیم) (ع۔ صفت) (۱) دانا۔ جاننے والا۔ عالم۔ واقف (۲) علم والا۔
 انیض۔ صاحب علم۔
 علیہ۔ (ع۔ لے۔ ہ) (ع۔ حرف جر) اُس پر۔
 علیہ ما علیہ۔ (ع۔ مضافاً) اس پر ہے۔ جو اس کے اُوپر ہے۔ کسی بڑے آدمی کے
 نام کے ساتھ واضح طور پر کہنے کی بجائے لکھ دیتے ہیں۔
 علیہ الرحمۃ۔ (ع۔ مضافاً) اس پر خدا کی رحمت ہو۔ وفات پائے ہوئے ولیوں

عماد۔ (ع۔ مذ) (۱) ستون (۲) اعتبار۔ اعتماد (۳) اُوپنے مکان۔
 عمارات۔ (ع۔ ما۔ م۔ رات) (ع۔ ا۔ مضافاً) عمارت کی جمع۔ مکان۔ گھر۔ وہ چیز
 جو تعمیر کی جائے۔
 عمارت۔ (ع۔ ما۔ م۔ رت) (ع۔ ا۔ مضافاً) آبادی۔ بستی (۲) مکان۔ محل۔ مسکن۔ گھر۔
 عمارتی۔ (ع۔ ما۔ م۔ رت) (ذ۔ مضافاً) عمارت سے متعلق۔
 عماری۔ (ع۔ م۔ م۔ رت) (ع۔ ا۔ مضافاً) عمارت کا جو دار۔ جو دار۔
 عمال۔ (ع۔ م۔ م۔ مال) (ع۔ ا۔ مذ) عامل کی جمع۔ حاکم۔ روپیہ تقسیم کرنے والے
 عہدہ دار۔ تحصیل دار۔
 عماسہ۔ (ع۔ ما۔ م۔ رت) (ع۔ ا۔ مذ) پرگٹی۔ دستار۔ سر پہنچ (اُردو میں بفتح آدل
 مستعمل ہے)۔

عمر (ع-۱۰-۱۱) سن (۱) سن (۲) عرصہ - مدت - زندگی - زمانہ - قرن - ہجرت - دور -
 عمر آخر ہونا (۱) - عمارت ہونے کے قریب ہونا - عمر ختم ہونا -
 عمر ابد - (ع-۱) - نہ ختم ہونے والی زندگی -
 عمر بھر (۱) - متعلق فعل (تمام عمر - تازیت - ہمیشہ - سدا -
 عمر بھر کی روٹیاں سیدھی کر لینا (۱) - عمارت) تمام عمر کے خرچ کے مطابق
 بہت سارے دیکھ کر لینا -
 عمر بھر (۱) - زندگی بھر کا ٹھیکہ - ہمیشہ جیتے رہنے کا اقرار نامہ -
 عمر تیر کرنا (۱) - عمارت) بڑے حالوں کی زندگی بسر کرنا - عمر کے دن پورے کرنا
 عمر جاودان (جاوید) - (ع-۱) - ف-۱ - سن) ہمیشہ کی زندگی -
 عمر دواز - (ع-۱) - ف-۱ - سن) عمر بڑی ہو - جیتے رہو -
 عمرت دراز باذخر اموش گارمن - (ع-۱) - ف-۱ - سن) مجھ کو بھول جانے
 والے تیری عمر بڑی ہو - یہ دعا ہے فقر ہے -
 عمر رسیدہ - (ع-۱) - ف-۱ - سن) بڑی عمر کا بڑھا - عمر - تجربہ کار - زمانہ شناس -
 عمر طبعی - عمر طبیعی - (ع-۱) - سن) پوری عمر - اصلی عمر جو اُڑنے سے محبت و
 نظرت قرار دی گئی ہے -
 عمر قید - (ع-۱) - ف-۱ - سن) عمر بھر کی قید - جیتے جی کی قید -
 عمر کا پیمانہ بھر جانا (لبریز ہو جانا) - (ع-۱) - عمارت) زندگی پوری ہو
 جانا - مرنے کا وقت آجانا -
 عمر کا ٹپنا - (ع-۱) - عمارت) عمر بسر کرنا - بے لطفی سے دن پورے کرنا -
 عمر کے دن بھرنا - عمر کے دن پورے کرنا - (ع-۱) - عمارت) جوں توں
 کر کے عمر کا ٹپنا -
 عمر نوح (ع-۱) - سن) نوح کی کسی بڑی عمر والا - کہتے ہیں کہ ان کی عمر
 ساٹھے دو سو برس سے بھی زیادہ تھی - بہت بڑی عمر -
 عمران - (ع-۱) - ان (ع-۱) - مذ (۱) آبادی (۲) حضرت موسیٰ کے والد -
 عمرانی - (ع-۱) - ان (ع-۱) - صف) معاشرتی - سوسائٹی سے متعلق - انسانوں
 کی آبادی سے متعلق -
 عمرانیات - (ع-۱) - ان (ع-۱) - صف) انسانی معاشرت کا علم -
 لوگوں کے رہن سہن کے اصولوں کا علم - (انگلیشی) (Sociology)
 عمر و - (ع-۱) - مذ (۱) فرضی نام جیسے زید - بکر وغیرہ (۲) ایک نام -
 عمر و عیار کی زمبیل - (ع-۱) - سن) برابر تن جس میں طرح طرح کی چیزیں
 رکھی ہوں -
 عمرہ - (ع-۱) - مذ (۱) - سن) - (ع-۱) - مذ (۱) زمانہ کے علاوہ مکہ منظر کی حاضری اور
 بیت اللہ کا طواف - اس میں حج کی طرح ہی احرام باندھا جاتا اور
 بیت اللہ کے طواف اور صفا و مروہ کے درمیان دوڑنے کے بعد کھول
 دیا جاتا ہے - حج کے دیگر مناسک ادا نہیں کیے جاتے -
 عمر سے باید کہ یار آید کنگار - (ع-۱) - ف-۱ - سن) محبوب کے گلے گلنے کے
 لیے ایک عمر جانیے - کسی کام کے انجام پانے میں دیر ہو جائے تو
 کہا جاتا ہے -

عمر میں عیش میں تیر کر دوں - (ع-۱) - عمارت) زندگی عیش و آرام میں بسر کر دی -
 عمرت - (ع-۱) - سن) (ع-۱) - مذ (۱) عمارت - تہ - گہرائی - بیچ - اعماق -
 عمل - (ع-۱) - کل (ع-۱) - مذ (۱) کام - فعل - کار - دھندا (۲) تعمیل - کارروائی -
 برتاؤ (۳) استعمال - عادت - معمول (۴) قاعدہ (۵) اثر - تاثیر (۶)
 حکومت - حدود قبضہ (۷) دقت - سوال (۸) عمارت) موثر - منتر - سحر - جمع - اعمال -
 عمل (اُٹھنا) اُٹھ جانا - (ع-۱) - عمارت) قبضہ نہ رہنا - حکومت جاتی رہنا -
 عمل انضمام - (ع-۱) - ف-۱ - مذ (۱) کھانا ہضم ہونے کا عمل -
 عمل پیٹھ جانا (پیٹھنا) - (ع-۱) - عمارت) قبضہ ہو جانا - عمل دخل ہونا - حکومت قائم ہونا
 عمل پائی کرنا - (ع-۱) - عمارت) نشہ آور چیزیں دقت پر استعمال کرنا -
 عمل پڑھنا - (ع-۱) - عمارت) کسی منتر یا فنوں یا عمل کا کسی خاص ترکیب
 سے پڑھنا -
 عمل پیرا ہونا - (ع-۱) - عمارت) عمل کرنا - کام کرنا -
 عمل بچاوی - (ع-۱) - ف-۱ - مذ (۱) بچاوی کا کام - بچیر بچار -
 عمل چیلنا - (ع-۱) - عمارت) سحر کا کارگر ہونا -
 عمل دار - (ع-۱) - ف-۱ - صف) حاکم - عامل - تعمیل دار - محصل -
 عمل داری - (ع-۱) - ف-۱ - سن) (ع-۱) - سن) حکومت - سلطنت - راج - ریاست
 (۲) علاقہ - قلمرو (۳) اختیار - حکم -
 عمل داری اُٹھ جانا - (ع-۱) - عمارت) حکومت جاتی رہنا -
 عمل دخل - (ع-۱) - ف-۱ - مذ (۱) تحت - حکومت (۲) قبضہ - اختیار (۳) اثر - رونق
 عمل درآمد - (ع-۱) - ف-۱ - سن) - (ع-۱) - سن) تعمیل - کاربندی - کارروائی -
 عمل دینا - (ع-۱) - عمارت) تحفہ دینا - ایما دینا -
 عمل شمسی و قمری - (ع-۱) - عمارت) (کیا گول کی اصطلاح میں) سونا چاندی بنانا -
 عمل صالح - (ع-۱) - صف) نیک کام -
 عمل طراز - (ع-۱) - ف-۱ - صف) کوئی کام اپنے ذمے لینا - جو کام کرے -
 عمل کرنا - (ع-۱) - صف) (ع-۱) - صف) بات ماننا - کسی بات پر چلنا (۲) اثر کرنا (۳)
 نشہ پانی کرنا (۴) قبضہ کرنا (۵) سوال حل کرنا -
 عمل ہونا - (ع-۱) - صف) (ع-۱) - صف) قبضہ ہونا (۲) نشہ ہونا (۳) کسی بات پر
 کاربند ہونا (۴) دقت ہونا (۵) اثر ہونا -
 عملہ - (ع-۱) - ف-۱ - سن) - (ع-۱) - صف) تابع فعل) بطور عمل - باعتبار عمل حقیقت میں - کام کر کے
 عملہ - (ع-۱) - صف) - (ع-۱) - صف) (ع-۱) - صف) عامل کی جمع (۱) اشاف - کام کرنے والے
 کسی محکمے کے ملازم - کارکن - اہل کار - پچھری کے لوگ (۲) مکان کا سامان
 (اُردو میں بسکون مستعمل ہے) -
 عملہ پولیس - عملہ فوجداری - (ع-۱) - صف) - (ع-۱) - صف) محکمہ پولیس - محکمہ فوجداری -
 شہری انتظام اور محافظت کے لوگ -
 عملہ و خلمہ - (ع-۱) - صف) - (ع-۱) - صف) قبضہ - تصرف -
 عملہ فعلہ - (ع-۱) - صف) - (ع-۱) - صف) محکمے کے نوکر یا کارکن - اہل کاران حکمہ (۲) اہل مال موالی -
 عملی - (ع-۱) - صف) - (ع-۱) - صف) عمل سے منسوب (۲) نشہ باز - نشے کا
 عادی (۳) معمولی - روزمرہ کے استعمال کی -
 عملی جامہ پہنانا - (ع-۱) - عمارت) کسی کام کو دقتوں میں لانانا یا کرنا -
 عملی ضرورت - (ع-۱) - صف) - (ع-۱) - صف) کسی کام کے ہونے کی ضرورت - وہ بات

عنان چھوڑنا۔ (۱-مادہ) لگام کو ڈھیلا چھوڑنا۔
 عنان کستہ (کجستہ)۔ (ع-ف-ص) لگام ٹوٹا ہوا یعنی بہت تیز
 عنان گیر۔ (ع-ف-ص) پھلنے سے روکنے والا۔ باگ کھڑنے والا۔
 عنایات۔ (ع-نا-یا) (ع-۱-ص) عنایت کی جمع۔ گمراہوں میں سفیر
 بھی مستقل ہے۔ بہرانی۔ عطیہ۔ التفات۔
 عنایت۔ (ع-نا-یت) (ع-۱-ص) (ع-۱) لطف۔ بہرانی (۲) توجہ۔ التفات
 (۳) تحفہ۔ عطیہ۔
 عنایت بے غایت۔ (ع-۱-ص) بے حد بہرانی۔
 عنایت فرما۔ (ع-ف-ص) دوست۔ بہرانی کہنے والا۔
 عنایت کرنا۔ (۱-مادہ) (۱) بہرانی کرنا (۲) احسان کرنا (۳) بخشش عطا
 کرنا۔ دینا (۴) توجہ کرنا۔
 عنایت کی نظر ہونا۔ (۱-مادہ) بہرانی ہونا۔ نگاہ لطف کا ہونا۔
 عنایت ہے۔ (۱-مادہ) بہرانی ہے۔ کرم بخش ہے۔
 عنقب۔ (ع-ن-ب) (ع-۱-ص) انگریز کیش۔ جمع: انقب۔
 عنقب الغلب۔ (ع-۱-ص) انقبو۔
 عنبر۔ (ع-ن-ب) (ع-۱-ص) سمندر کی ایک قسم کی سوکھی جھاگ جس کو جملانے
 سے خوشبو پیدا ہوتی ہے۔
 عنبر آگین۔ (ع-ن-ب) (ع-۱-ص) عنبر کی خوشبو سے بھرا ہوا۔
 عنبر اشہب۔ (ع-ن-ب) (ع-۱-ص) سیاہ رنگ کا عنبر۔ اعلیٰ قسم کا عنبر۔
 عنبر افشان۔ عنبر ہیز۔ (ع-ص) بیت خوشبو دینے والا۔
 عنبر سخشاں۔ ایک قسم کا صاف کیا ہوا عنبر جس پر سینہ سخشاں کی مانند
 پتیاں ہوتی ہیں۔
 عنبر سارا۔ (ع-ن-ب) (ع-۱-ص) خالص عنبر۔
 عنبر سوڑ۔ (ع-ن-ب) (ع-۱-ص) عنبر جملانے کا برتن۔
 عنبرئی۔ (ع-ن-ب) (ع-۱-ص) عنبر کے رنگ کا۔ عنبر کی مانند۔
 خوشبودار۔
 عنبر مایل۔ (ع-ن-ب) (ع-۱-ص) عنبر کی کسی خوشبو دینے والا خوشبودار۔
 عنقد۔ (ع-اسم ظرف) (۱) نزدیک۔ پاس۔ قریب (۲) سامنے۔ آگے (۳) تقریباً
 عند الاستفسار۔ (ع-متعلق فعل) مانتے پر۔ دریافت کرنے پر۔
 عند اللہ۔ (ع-متعلق فعل) خدا کے نزدیک۔
 عند التحقيق۔ (ع-متعلق فعل) دریافت کرنے پر تحقیق کے دوران میں۔
 عند الخلاق۔ (ع-متعلق فعل) لوگوں کے نزدیک۔
 عند الضرورت۔ (ع-متعلق فعل) ضرورت کے وقت۔ ضرورت میں۔
 عند الطلب۔ (ع-متعلق فعل) مانگنے کے وقت۔ بروقت مطالعہ۔
 عند الطلب ہنڈی۔ (ع-۱-ص) (ع-۱-ص) وہ روپیہ جو مانگنے پر فوراً دے
 دیا جائے۔
 عند الفرصت۔ (ع-متعلق فعل) فرصت کے وقت۔
 عند الملاحظات۔ (ع-متعلق فعل) بروقت ملاحظہ۔ لگنے کے وقت۔
 عند التماس۔ (ع-متعلق فعل) لوگوں کے نزدیک۔
 عند الوقت۔ (ع-متعلق فعل) عین وقت پر۔

جو خیال سے عمل میں آجائے۔
 عملی صورت اختیار کرنا۔ (۱-مادہ) کسی کام کا ہوجانا۔
 عملیات۔ (ع-ن-م-لی-یات) (ع-۱-ص) عمل کی جمع۔ افسوں۔
 منتر۔ رسومات۔
 عمود۔ (ع-ن-م) (ع-۱-ص) مذ دیکھے نم۔ پچا۔
 عمود۔ (ع-ن-م) (ع-۱-ص) مذ (۱) نم۔ کھم۔ ستون۔ چوب خمہ (۲) وہ خط
 مستقیم جو دوسرے خط مستقیم پر قائم ہو کر دونوں زاویہ قائمہ
 پیدا کرے۔
 عمود النا (کھینچنا)۔ (۱-مادہ) کسی خط مستقیم پر عمود قائم کرنا۔
 عموداً۔ (ع-متعلق لفظ) سیدھا۔ زاویہ قائمہ بنانا ہوا۔
 عمودی۔ (ع-ن-م-دی) (ع-۱-ص) عمود جیسی۔ عمود والی۔ سیدھی۔
 عموم۔ (ع-ن-م) (ع-۱-ص) مذ عام ہونا۔ بیشتر۔ بہت۔ عمل العموم۔ سرسری طور پر۔
 عموماً۔ (ع-متعلق فعل) عام طور پر۔ اکثر۔ بیشتر۔
 عمی۔ (ع-۱-ص) مذ اندھاپن۔
 عمیاً۔ (ع-۱-ص) عملی کی تائید۔ اندھی۔
 عمید۔ (ع-۱-ص) مذ سردار۔ حاکم۔ سرکات میں جیسے عمید الدولہ۔
 عمومی۔ (ع-ن-م-می) (ع-۱-ص) عام۔ اکثر۔ بیشتر۔
 عمیق۔ (ع-ن-م-یق) (ع-۱-ص) گہرا۔ ڈباؤ اتھاہ (۲) کامل۔
 عمیم۔ (ع-ن-م-یم) (ع-۱-ص) پورا۔ تمام۔ سب میں شامل۔ سب پر عادی۔ عام۔
 عملم الاحسان۔ (ع-ص) سب پر احسان کرنے والا۔
 عملم البرکات۔ (ع-ص) سب پر برکتیں بھیجنے والا۔

ع-ن

عن۔ (ع-ن-ج) سے۔ ساتھ۔ ذریعہ سے۔ اس کے بموجب۔ اس کی زبانی۔
 عن قریب (معتقرب)۔ (۱) پاس۔ نزدیک (۲) جلد۔ فوراً۔
 عن۔ (ع-نا) (ع-۱-ص) مذ (۱) تکلف (۲) محنت (۳) تھکاؤ (۴) رنج۔
 عناب۔ (ع-ن-اب) (ع-۱-ص) مذ (۱) دلچسپ ہونے کی وجہ سے رنگ کا ہوتا ہے۔
 عنابی۔ (ع-ن-ابی) (ع-۱-ص) عناب کی مانند۔ سیاہی مائل سرخ۔
 عناد۔ (ع-نا) (ع-۱-ص) لڑائی۔ سرکشی۔ خصومت (۲) ضد۔ اصرار۔ بہت
 (۳) دشمنی۔ عداوت (۴) کینہ۔ نفاق۔
 عناد۔ (ع-نا-ذن) (ع-۱-ص) تابع فعل) دشمنی سے۔ مخالفت کی وجہ سے۔
 عنادل۔ (ع-نا-دل) (ع-۱-ص) مذ (عندلب کی جمع)۔ بیگیں۔
 عناصر۔ (ع-نا-ص) (ع-۱-ص) مذ (عنصر کی جمع)۔ اصلی اجزاء۔
 عناصر اربع۔ (ع-۱-ص) مذ (۱) دنیا کے چاروں بنیادی اجزاء۔ پانی
 ہوا۔ آگ۔ مٹی۔ موجودہ سائنسی تحقیقات کے مطابق ان میں کوئی عنصر
 نہیں ہے۔
 عنان۔ (ع-ن-ان) (ع-۱-ص) باگ۔ لگام۔ باگ۔ ڈور۔ پاس۔
 عنان تاب۔ (ع-ن-ف-ص) اشارے پر چلنے والا (کھوڑا)۔

(۳) ایک بہت لمبا آدمی جسے موسیٰ علیہ السلام نے قتل کیا۔
 عُوَد۔ (ع۔۱۔ مذ) دایسی، مُراجعت، اعادہ، کوٹنا، پھرنا۔
 عُوَدُکِرْنَا۔ (معن۔ مرکب) لوٹ آنا۔ اعادہ کرنا۔ پھر آجانا۔
 عُوَد۔ (ع۔۱۔ مٹ) (۱) ایک قسم کی سیاہ گڑھی جو آگ میں جل کر نہایت عمدہ
 خوشبودار ہوتی ہے۔ اگر (۲) بربط۔ ایک قسم کا سبز۔
 عُوُدُسُوذ۔ (ع۔ف۔۱۔ مذ) عود جملانے کی انگلیٹھی۔ اگر دان۔
 عُوُدُہِندی۔ (ع۔۱۔ مذ) ایک درخت اور اس کی گڑھی (۲) لرزا اسدا لشد
 خاں غالب کی ایک نثری کتاب۔
 عُوَرَات۔ (ع۔و۔ رات) (ع۔۱۔ مٹ) عورت کی جمع۔
 عُوَرَت۔ (ع۔و۔ رت) (ع۔۱۔ مٹ) (۱) مرد کی مادہ۔ نار۔ لگائی۔ استری (۲)
 بورو۔ بیوی۔ زوجہ (۳) شرم گاہ۔ جسم کے وہ حصے جن کا کھولنا موجب
 شرم ہے۔
 عُوَرَت اور گڑھی کی سیل جلدی بڑھے۔ (۱) مثل) گڑھی کی سیل کی طرح
 عورت بھی جلد جوان ہو جاتی ہے۔
 عُوَرَت اور کھوٹا ران تلے۔ (۱۔ مثل) (۱) دونوں جب تک قابو میں رہیں
 اپنے ہیں۔
 عُوَرَت ذَات۔ (ع۔۱۔ مٹ) عورت کی جنس۔

عُوَض۔ (ع۔و۔ ض) (ع۔۱۔ مذ) بدلہ، معاوضہ۔ ابر۔ تادان۔ ٹنڈ۔ جزاء۔
 بڑمانہ (۲) قائم مقام۔ بجائے (۳) سزا۔ تعزیر۔ عذاب۔
 عُوَض لینا۔ (۱) معاورہ بدلہ لینا۔ یکے کی سزا دینا۔ انتقام لینا۔
 عُوَض مُعَاوَضَہ۔ (ع۔۱۔ مذ) معاوضہ۔ اٹٹاپٹی۔ اول بدل۔
 عُوَض مُعَاوَضَہ لگہ نڈار۔ (ف۔ مثل) لے دے کر پھر کوئی شکوہ شکایت
 نہیں چاہیے۔
 عُوَض میں۔ (۱) متعلق فعل) بدلے میں۔
 عُوَضَانہ۔ (ع۔و۔ ضا۔ نڈ) (۱) مذ۔ جملہ۔ بدلہ۔ معاوضہ (۲) وہ روپیہ جو
 کسی کام کے بدلے میں دیا جائے (۳) رشوت کی ایک قسم۔
 عُوَضِی۔ (ع۔و۔ ضی) (ع۔۱۔ مذ) (۱) قائم مقام (۲) مٹ) قائم مقامی۔
 عُوَضِی دینا۔ (۱) معاورہ) اپنی جگہ کام کرنے کے لیے کوئی دوسرا آدمی دے کر
 آپ رخصت لینا۔
 عُوَضِی کرنا۔ (۱) معاورہ) قائم مقامی کرنا۔
 عُوُو۔ (ع۔و۔ عو) (ع۔۱۔ مٹ) (۱) کٹنے کے چھوٹنے کی آواز عَف عَف (۲) ڈینگ
 عُوُوں۔ (ع۔۱۔ مذ) (۱) مدد۔ کمک۔ معاونت (۲) مددگار۔
 عُوُوں اللہ۔ خدا کی مدد۔

ع — ہ

عُجْبِر۔ (ع۔۱۔ مٹ) رگس کی ایک قسم۔
 عُجْبِد۔ (ع۔۱۔ مذ) (۱) وقت۔ زمانہ۔ سال (۲) قول و قریلو۔ اقرار مدار۔ قسم۔
 سونگہ (۳) سلطنت کا زمانہ۔ زمانہ حکومت (۴) پابندی۔

عُذْرُ الْوَقُوْع۔ (ع۔متعلق فعل) واقع ہونے کے وقت۔ آخر کار۔
 عُذْرِب۔ (ع۔ن۔ ذ۔ لب) (ع۔۱۔ مذ) (۱) مٹ) مٹیل۔ گل ڈم۔ جمع: حنادل۔
 عُذْرِب۔ (ع۔ن۔ ذ۔ لب) (۱) مذ) (۱) رائے۔ نشا (۲) ارادہ۔ منصوبہ۔
 عُذْرِب پانا۔ عُذْرِبِہ لینا۔ عُذْرِبِہ معلوم کرنا۔ (۱) معاورہ) رائے لینا۔ نشا
 دریا فٹ کرنا۔ جھید لینا۔
 عُذْرِبِہ کھلنا۔ (۱) معاورہ) نشا معلوم ہونا۔
 عُذْرِب۔ (ع۔ن۔ صر) (ع۔۱۔ مذ) اصل بنیاد۔ اصل جزد۔ وہ چیزیں جو
 مرکب نہ ہوں۔ مُفْرَد چیز۔ جمع: عُذْرِب۔
 عُذْرِب۔ (ع۔ن۔ صر) (ع۔۱۔ مذ) (۱) مٹ) بنیادی اجزاء سے متعلق۔
 عُذْرِبَان۔ (ع۔ن۔ ف۔ و) (ع۔۱۔ مذ) آغاز۔ شروع۔ تازگی۔ خوبصورتی۔
 عُذْرِبَان شَاب۔ (ع۔۱۔ مذ) جوانی کا آغاز۔
 عُذْرِب۔ (ع۔۱۔ مذ) گردن۔
 عُذْرِب۔ (ع۔ن۔ ق) (ع۔۱۔ مذ) (۱) سیرخ۔ ایک فرضی پرند (۲) تابیاب شے۔ بے نظیر چیز
 عُذْرِب ہونا۔ (۱) معاورہ) (۱) نادر و کمیاب ہونا (۲) فاش ہونا (۳) مشکل
 ہونا۔ دشوار ہونا۔
 عُذْرِبُوْت۔ (ع۔ن۔ بک۔ بورت) (ع۔۱۔ مٹ) گڑھی۔
 عُذْرِبُوَان۔ (ع۔ن۔ وان) (ع۔۱۔ مذ) (۱) سُرخ۔ سُرنا۔ (۲) شروع۔ آغاز (۳)
 دیا چہ (۴) فضل۔ باب (۵) سبب۔ وجہ۔ طور طریق۔ طرز۔ ڈھنگ۔ جمع: عُذْرِبُوَان
 عُذْرِب۔ (ع۔صفت) لڑاکا۔ سرکش۔
 عُذْرِب۔ (ع۔صفت) تند خو۔ درشت مزاج۔
 عُذْرِب۔ (ع۔ن۔ بین) (ع۔۱۔ مٹ) (۱) مذ) نامرد۔ جھجھڑا۔

ع — و

عُوَارِض۔ (ع۔و۔ رض) (ع۔۱۔ مذ) عارضہ کی جمع۔ پیش آنے والی چیزیں۔
 مرض۔ دیکھ۔ بیماریاں۔
 عُوَاظِف۔ (ع۔و۔ ظ) (ع۔۱۔ مٹ) عاطفہ کی جمع۔ ہرمانیاں۔ رجحانات۔
 عُوَاظِب۔ (ع۔و۔ ظ) (ع۔۱۔ مذ) عاقبت کی جمع۔ نتائج۔
 عُوَاظِب میں۔ (ع۔ف۔ صفت) دُوراندیش۔
 عُوَاظ۔ (ع۔و۔ ظ) (ع۔۱۔ مذ) عاترہ کی جمع (۱) عام لوگ۔ مخلوق (۲) رعایا۔
 ہر جا (۳) جہلا۔ جاہلی آدمی۔ بازاری لوگ۔
 عُوَاظُ النَّاس۔ (ع۔۱۔ مذ) تمام آدمی۔ عام لوگ۔ بازاری آدمی۔
 عُوَاظُ کُلِّ النَّاس۔ (ع۔۱۔ مذ) عام لوگ۔ مثل چوپایوں کے ہیں۔
 عُوَاظِل۔ (ع۔و۔ ظ) (ع۔۱۔ مذ) عامل کی جمع۔ عمل کرنے والے۔ اثرات۔
 حاکم لوگ۔
 عُوَاظِی۔ (ع۔و۔ ظ) (ع۔۱۔ مٹ) عوام سے منسوب۔ عام لوگوں کی۔ جمہوری۔
 عُوَاظِی۔ (ع۔۱۔ مٹ) ادھیڑ عورت (۲) گھر کی مالک۔
 عُوَاظِب۔ (ع۔و۔ ظ) (ع۔۱۔ مذ) عاتب کی جمع۔ عیب کرنے والے۔
 عُوَاظِبِہ عُنُقُ (عُوَاظِہ)۔ (ع۔۱۔ مذ) بہت لمبے قد والا (۲) بے وقوف۔

عیاشی - (جی۔ یا۔ شی، ڈار۔ امث) (۱) عیش و عشرت۔ تن آسانی (۲) تماش بینی۔ نفس پرستی۔ ادباشی۔

عیاشی کرنا - (۱) محاورہ) تماش بینی کرنا۔ مزے اٹانا۔

عیال - (ع۔ یال۔ بع۔ یال، ذ۔ ۱) ذن و فرزند۔ بال بچے۔ متعلقین۔

عیال دار - (ع۔ ف۔ صفت) کینے والا۔ بال بچے والا۔

عیال داری میں پھنسا - (۱) محاورہ) بال بچوں میں گرفتاری۔ گھر بار اور خانہ داری کے جھگڑے بچھڑے میں پڑنا۔

عیال - (ع۔ یال، ذ۔ ۱) صفت) ظاہر و علانیہ۔ ائمہ فخر۔ کھلا ہوا۔ نمودار۔

عیال راچہ میاں - (ف۔ مٹل) ظاہر اور علانیہ چیز کو بیان کرنے کی

مزدورت نہیں۔

عیب - (ع۔ ۱۔ مذ) نقص۔ بڑائی۔ خرابی۔ داغ۔ روگ۔ گناہ۔ قصور۔

جمع، عیوب۔

عیب اُٹھانا - (۱) محاورہ) تشہیر کرنا۔ راز فاش کرنا۔ عیب بیان کرنا۔

عیب بکھانا - (۱) محاورہ) (۲) نقص بیان کرنا (۳) بھید کھول دینا۔

عیب ہیں - عیب جو یا۔ عیب جو۔ عیب چھین۔ عیب گیر - (ع۔ ف۔

۱۔ صفت) عیب ڈھونڈنے والا حرف گیر۔ نقص نکالنے والا۔ نکتہ چین۔ عیب پکڑنے والا۔

عیب بینی - عیب جوئی - عیب چینی - عیب گیری - (ع۔ ف۔ ۱۔ مٹل)

عیب ڈھونڈنا۔ عیب نکالنا۔ نقص نکالنا۔

عیب پوش - (ع۔ ف۔ ۱۔ مٹل) لوگوں کے عیب چھپانے والا۔ اوپر کی

مٹھہ پوشاک۔

عیب پوشی - (ع۔ ف۔ ۱۔ مٹل) چھپ پوشی۔ اعماض پرده پوشی۔

عیب جاننا - (۱) محاورہ) بُرا بھنا۔ بُرا خیال کرنا۔

عیب جو - (ع۔ ف۔ صفت) عیب ڈھونڈنے والا۔ نکتہ چین۔

عیب چھپانا - (۱) محاورہ) پردہ پوشی کرنا۔

عیب چھین - (ع۔ ف۔ ۱۔ صفت) عیب چھیننے والا۔ نکتہ چین۔

عیب خود ہر کے می بیند - (ف۔ مٹل) اپنا عیب کسی کو معلوم نہیں ہوتا۔

عیب دار - (ع۔ ف۔ ۱۔ صفت) عیبی۔ ناقص جس میں کچھ عیب ہو۔

عیب ڈھا ٹکنا - (۱) محاورہ) عیب چھپانا۔

عیب سے بُری ہونا (پاک ہونا) - (۱) محاورہ) بے عیب ہونا۔ بے

نقص ہونا۔

عیب کرنے کو بھی ہنتر چاہیے۔ عیب کردن را ہنرے باید۔

(۱) ف۔ مٹل) عیب کرنے کے لیے بھی اہلیت چاہیے۔

عیب لگانا - (۱) محاورہ) الزام دھرنا۔ بہتان باندھنا۔ داغ لگانا (۲) بدنام

کرنا۔ رسوا کرنا (۳) محنت میں فرق ڈالنا۔ عزت بگاڑنا۔

عیب نکالنا - (۱) محاورہ) نکتہ چین کرنا۔ بڑائی ظاہر کرنا۔

عیب و ثواب - (ع۔ ف۔ ۱۔ مذ) بڑائی۔ بھلائی۔

عیب و ہنر کھل جانا - (۱) محاورہ) اچھائی بڑائی ظاہر ہو جانا۔

عیبیا جملہ لغتی ہنرش نیز ہوگو - (ف۔ مٹل) عیب تو سارے گنوا دینے۔ اس کی نیکیاں بھی بیان کر دو۔

عہد اسطیری - (ع۔ ۱۔ مذ) وہ زمانہ قدیم جس کا ذکر صرف قصے کہا نیوں میں ہے۔ عہد با قبل تاریخ۔

عہد باندھنا - (۱) محاورہ) پکا وعدہ کرنا۔ اقرار کرنا۔ ٹھاننا۔

عہد توڑنا - (۱) محاورہ) اقرار کے خلاف کرنا۔ قول و قرار پر نہ رہنا۔

عہد جدید - (ع۔ ۱۔ مذ) موجودہ زمانہ۔ نیا زمانہ (۲) انجیل۔

عہد حکومت - (ع۔ ۱۔ مٹل) سلطنت کا زمانہ۔ ایام حکومت۔

عہد سے پھرنا (مخرف) ہو جانا - (۱) محاورہ) قول و قرار سے پھر جانا۔

عہد شکن - (ف۔ ۱۔ مذ) وعدہ خلاف۔ اپنے قول و قرار پر نہ رہنے والا۔

عہد شکنی - (ف۔ ۱۔ مٹل) وعدہ خلافی۔ اقرار کے خلاف۔

عہد عتیق - (ع۔ ۱۔ مذ) زمانہ قبل از تاریخ (۲) تواریخ۔

عہد کر لینا - (۱) محاورہ) (۲) قسم کھا لینا (۳) قسم ادا کرنا (۴) وعدہ کر لینا۔

قول و قرار کر لینا۔

عہد لینا - (۱) محاورہ) قسم لینا۔ کسی امر کا وعدہ لینا۔

عہد میں - (۱) تابع فعل) زمانہ میں۔ دور میں۔ وقت میں۔

عہد نامہ - (ع۔ ف۔ ۱۔ مذ) معاہدہ تحریری۔ اقرار نامہ۔ وہ کاغذ جو قول و

قرار کے وثوق کے لیے لکھا جاتا ہے۔

عہد نامہ جدید - (ع۔ ف۔ ۱۔ مذ) انجیل کا وہ حصہ جس میں حضرت یسے اور

ان کے پریدان خاص کے عہد کے حالات درج ہیں۔

عہد نامہ قدیم - (ع۔ ف۔ ۱۔ مذ) انجیل کا وہ حصہ جس میں حضرت عیسیٰ سے

پہلے کے حالات درج ہیں۔

عہد و پیمان - (ع۔ ف۔ ۱۔ مذ) قسمی۔ اقرار۔ عار۔ قول و اقرار۔

عہدہ - (ع۔ ۱۔ مذ) (۱) مہنت۔ مہانت (۲) منصب۔ سرداری۔ افسری۔

عہدہ بر آہوونا - (۱) محاورہ) بڑی اذیت ہونا۔ فرض ادا کرنا۔ وعدہ پورا کر دینا۔

عہدہ پانا - (۱) محاورہ) منصب حاصل کرنا۔ درجہ پانا۔

عہدہ دار - ذی رتبہ۔ افسر۔ صاحب منصب۔

عہدہ - (ع۔ ۱۔ مذ) عہد کی جمع۔ وعدے معاہدے۔

ع-۱

عیادت - (ع۔ یا۔ دت) (ع۔ ۱۔ مٹل) بیمار پرستی۔ بیماری کی تہر پوچھنا۔

عیادت کرنا - (۱) محاورہ) بیمار پرستی کرنا۔ بیمار کا حال پوچھنا۔

عیاذ - (ع۔ یا۔ ذ) (۱) مذ) (۲) پناہ لینا (۳) بڑائی سے بھاگنا۔

عیاذ باللہ - (ع۔ یا۔ ذ) (ع۔ ۱۔ مذ) (۲) کھڑ پناہ) خدا کی پناہ۔ میں خدا سے پناہ مانگتا ہوں۔

عیار - (ع۔ یا۔ ع۔ یا۔ ع) (۱) مذ) (۲) کھڑ کھوٹا پن (۳) سونا چاندی تولنے کا کاشا۔

عیار - (ع۔ یا۔ ع) (۱) صفت) (۲) مکار۔ فریبی۔ چال باز۔ تلک (۳) چالاک

ہوشیار۔ دغا باز۔

عیاری - (ع۔ یا۔ ری) (ع۔ ۱۔ مٹل) فریب۔ دغا۔ چالاک۔ دھوکا بازی۔

عیاش - (ع۔ یا۔ ش) (ع۔ ۱) آرام سے رہنے والا (۲) تماش (۳) بدکار

رندی باز۔ بچر۔

عجیبی - (سے - بی) (اُر - ا - مذ) (۱) عیب دار - ناقص (۲) تھریر - بد ذات (۳) روگی - مریض (۴) میوب -

رعید - (ع - ا - مٹ) لغوی معنی جو بار بار آئے (۱) مسلمانوں کے جشن کاروز - خوشی کا ہوا (۲) نہایت خوشی -

رعید اصحی - رعید اللانحی - (ع - ا - مٹ) بقر عید مسلمانوں کا وہ ہوا جو دوش ذوالحجہ کو منایا جاتا ہے جس میں جانوروں کی قربانی کی جاتی ہے -

رعید غدیر - (ع - ا - مٹ) اہل تشیع کی روایت کے مطابق حضورؐ نے مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک گاؤں خم غدیر میں حجۃ الوداع سے واپسی پر حضرت علیؑ کو عیدت من کنت مولاً فعلی مولاً کے رو سے اپنا خلیفہ قرار

دیا۔ شیعہ حضرت یہ دن ۱۸ ذوالحجہ کو مناتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت کے نزدیک اس عیدت سے خلافت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔

رعید القطر - (ع - ا - مٹ) رمضان کے بعد کی عید جو شوال کی پہلی تاریخ کو رمضان کے روزوں کی تکمیل پر منائی جاتی ہے۔

عید قربان - (ع - ا - مٹ) عید جس میں قربانی کی جائے۔ عید اصحی۔ عید کا چاند - (ا - مذ) (۱) رمضان کے بعد کا چاند (۲) سوال کا ہینہ (۳) قابلِ اشتیاق - وہ شخص جسے مدت کے بعد میں انتظار یا حالتِ اشتیاق میں رکھیں

عید کا چاند نکلنا - (ا - محاورہ) (۱) عید کے چاند کا نظر آنا (۲) جس شخص کی ملاقات کا اشتیاق ہو اس کا یکایک بل جانا۔

عید کا چاند ہو جانا - (ا - محاورہ) کمالِ اشتیاق اور آرزو کے بعد ملنا۔ بہت کم نظر آنا۔

عید کا دوگانہ - (ا - مذ) عید کی دو رکعت نماز۔ رعید کرنا - (ا - محاورہ) خوشی کرنا۔ جشن منانا۔

عید کے پیچھے ٹر - (ا - مٹ) عید کے دوسرے روز کا میلہ - وقت گزر جانے کے بعد خوشی کی بے موقع نقل کرنا۔ ہوا نکل گیا تو خوشی کیسی بے موقع ہوئی۔

عید کے پیچھے چاند مبارک - (ا - مٹ) بے عمل مبارک باد دینا۔ عید گاہ - (ع - ف - ا - مٹ) وہ مقام جہاں عید کی نماز پڑھتے ہیں۔

عید منانا - (ا - محاورہ) خوشی کرنا۔ جشن منانا۔ عید میلاد - (ع - ا - مذ) پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن۔

رعید نوروز - (ع - ا - مٹ) ایرانی سال کا پہلا دن۔ رعید ہو جانا - رعید ہونا - (ا - محاورہ) (۱) عید کا ہوا ہونا (۲) کمالِ خوشی ہونا - مراد برآنا۔

رعیددی - (جی - دی) (ا - مذ) (۱) عید کا انعام - عید کا خرچ جو بچوں کو دیا جائے (۲) وہ مٹائی اور نقدی دینہ جو عید کے دن کسٹروال سے آئے۔

یادوں بیچی جانے (۳) وہ خوش ناک خاندان جس پر عید کے اشعار لکھے جاتے ہیں۔ رعیدین - (ع - ا - مٹ) وہ فرائض یعنی عید القطر اور عید الانحی۔

عیسا - عیسیٰ - (جی - سا) (عبرانی - ا - مذ) (۱) گناہ سے بچانے والا (۲) ایک پیغمبر جو حضرت مریم کے بطن سے پیدا ہوئے۔ ان پر انجیل نازل ہوئی۔

عیسیٰ بدین خود و موسیٰ بدین خود - (مٹ) ہر شخص اپنے مذہب سے کام رکھے۔ دوسرے کے مذہب سے کیا واسطہ۔

عیسیٰ دم - (ع - ف - مٹ) پھونک سے مرادوں کو زندہ کرنے والا۔ کالی بزرگ۔

عیسیٰ دوران - (ع - ف - ا - مٹ) کابل حبیب۔

عیسیٰ نفس - (ع - ف - مٹ) پھونک سے مرادوں کو زندہ کرنے والا۔ ولی کابل۔ عیسیٰ - (جی - سا - ای) (ا - مذ) نصرانی - مسیحی حضرت عیسیٰ کے پیرو اور ان کے ماننے والے (صفت) دین مسیحی سے متعلق۔

عیسیوی - (جی - سی - وی) (ع - صفت) مسیحی - حضرت عیسیٰ سے متعلق۔ وہ سن جو حضرت عیسیٰ کی ولادت سے شروع ہوا۔

عیس - (ع - ا - مذ) (۱) عشرت - آرام - چین - لکھ - خوشی - مزہ (۲) خواہشوں کا پورا کرنا (۳) شہوت پرست (۴) شراب اور عورت کا لطف (۵) خوشی سے زندگی گزارنا۔

عیس آرام حرام کرنا - (ا - محاورہ) آرام و آسائش کی پروا نہ رکھنا۔ عیس اڑانا - (ا - محاورہ) مزے اڑانا۔ لطف حاصل کرنا۔

عیس تلخ کرنا - عیس منغض کرنا - (ا - محاورہ) عیس و آرام میں خلل اٹھا ہونا۔ عیس کا بندہ - (ا - مذ) (۱) آرام طلب - نفس پرست (۲) عیاش۔

عیس کوش - (ع - ف - مٹ) عیس و عشرت کرنے والا۔ عیس و عشرت - (ا) خوشی و مفرحی - عیس و دشاظ (۲) نفسانی خوشی۔

عیس و عشرت میں پڑنا - (ا - محاورہ) زندگی کے مزے اڑانا - عیاشی کرنا۔ عیس ہونا - (ا - محاورہ) مزے ہونا۔ لطف ہونا۔

عیس - (ع - ا - مٹ) (۱) آنکھ - چشم (۲) پانی کا چشمہ (۳) حقیقت - جو ہر (۴) حقیق بیٹائی - سگ بجائی (۵) (صفت) ٹھیک - جو بھو - درست - صحیح - بیٹوں۔

عیس الحاد - (ع - ا - مذ) ٹھیک دوستی - اہل دوستی - گہرا یارانہ۔ عیس المال - (ع - ا - مذ) اصل زند - خاص سرکاری خزانہ - وہ روپیہ جو زمین کے

خارج سے وصول ہو۔ عیس الیقین - (ع - ا - مذ) کسی چیز کو اپنی آنکھ سے دیکھ کر یقین کرنا۔

عیس بعین - (ع - متعلق فعل) جو ہو - ویسا ہی ٹھیک ٹھیک۔ عیس صواب - (ع - متعلق فعل) بالکل ٹھیک۔

عیس عنایت - (ع - ا - مٹ) بڑی مہربانی۔ عیس مرضی - (ع - ا - مٹ) اصل مرضی۔

عیس تصدود - (ع - ا - مذ) اصل مطلب۔ عیس وقت - (ع - ا - مذ) ٹھیک وقت - نازک وقت۔

عیسک - (سے - نک) (ع - ا - مٹ) آنکھ کا چشمہ۔ عیسک باز - (ع - ف - مٹ) شوقیہ چشمہ لگانے والا۔

عیسک ساز - (ع - ف - مذ) عیسک بنانے والا۔ عیسک لگا کر دیکھو - (ا - مقولہ) غور سے دیکھو۔

عیسک لگنا - (ا - محاورہ) عیسک سے ٹھیک دکھائی دینا۔ عیسیٰ - (سے - نی) (ع - صفت) (۱) آنکھ سے متعلق - دیکھا ہوا (۲) سگا۔

عیسیٰ شہادت - (ع - ا - مٹ) چشم دید گواہی۔ عیسیٰ گواہ - (ع - ف - ا - مذ) وہ گواہ جس نے خود واقعہ دیکھا ہو - چشم دید گواہ۔

عیسنت - (ع - ا - مٹ) اصل ذات یا اصل حقیقت۔ عیوب - (ع - یوب) (ع - ا - مذ) عیب کی جمع - بُرائیاں - نقائص۔

عیون - (ع - یون) (ع - ا - مذ) عین کی جمع - (۱) چشمے (۲) آنکھیں۔

غبن کرنا۔ (۱۔ عمارہ) (۲) خیانت کرنا (۳) پیمانہ خود بُرد کرنا۔
غبنی۔ (ع۔ بنی) (د۔ ع۔ صفت) گندہ ذہن۔ کم عقل۔ کمزور حافظ والا۔ بے وقوف۔

ع۔ پ

عقب۔ (ا۔ ر۔ ا۔ مذ) (۱) چھوٹی بات۔ شیخی کی بات۔ گپ (۲) ضرب کی آواز (ق) (۳) جلدی سے حلق میں اتر جانے کی آواز۔

عقب شپ۔ (ا۔ امث) (۱) لغز بائیں (۲) دقت گزار کی بائیں۔ تفریح۔

عقبی۔ (عقب۔ یا) (ا۔ ر۔ ا۔ امث) جلدی سے اندر اتر جانے والا (۲) دھوکا۔
عقب عقب۔ (ا۔ ر۔ ا۔ امث) متواتر مسلسل۔ پے در پے (۲) کسی چیز کی طام چیز کے اندر آتے جانے کی آواز۔

عقب پوچھ۔ (عقب۔ یا) (۱) متواتر مسلسل۔ پے در پے (۲) کسی چیز کی طام چیز کے اندر آتے جانے کی آواز۔
عقب پوچھ۔ (عقب۔ یا) (۱) متواتر مسلسل۔ پے در پے (۲) کسی چیز کی طام چیز کے اندر آتے جانے کی آواز۔

ع۔ ت

عنت رُبوذ (عتر بوذ)۔ (عنت۔ ر۔ بوذ) (ع۔ ت۔ ر۔ بوذ) (ا۔ ر۔ صفت) (۱) ملاجلا۔ گڈمڈ (۲) گلاب۔ برباد کرنا۔ خواب کرنا۔ کہتے ہیں کسی جاہل شاگرد نے اُستاد سے کہا سعدی کے مصرع "کہ سعدی کہ گونے بلا عنت ربود" سمجھ میں تو آ گیا ہے مگر عنت ربود کے معنی سمجھ میں نہیں آئے۔ اس سبب سے مشہور ہو گیا۔ دوسری روایت یہ ہے کہ مصرع متذکرہ کے معنی سمجھتے وقت ہم عالم ملانے شاگرد کو بتایا کہ "سعدی کی گیند بلا کی" پھر کہا عنت ربود، میضہ عربی کا ہے۔ آگے پڑھ۔ عربی شہرت ہو گئی۔

عنت ربود (عتر بوذ) کرنا۔ (۱۔ عمارہ) (۲) ملاجلا دینا۔ گڈمڈ کر دینا (۲) پڑا دینا۔ اڑا دینا (۳) خواب کر دینا۔ برباد کر دینا۔

ع۔ ٹ

عُٹ۔ (ا۔ ر۔ ا۔ مذ) (۱) ہجوم۔ اڑدھام۔ غول (۲) حلق میں اتر جانے کی آواز گھونٹ گھونٹ پانی پینے کی آواز (۳) ایک دم فوراً۔

عُٹ بیٹ ہو جانا۔ (۱۔ عمارہ) باہم لڑائی میں گتھ جانا۔

عُٹ عُٹ۔ (۱۔ امث) جلدی جلدی پانی پینے کی آواز۔

عُٹ عُٹ پینا (چڑھنا)۔ (۱۔ عمارہ) کسی رقیق چیز کو جلدی جلدی پینا۔

عُٹ کے عُٹ۔ (۱۔ صفت) غول کے غول۔ عُٹ کے عُٹ۔ انہوہ کثیر۔

عُٹا۔ (ق۔ ا۔ مذ) لٹا۔ ڈاٹ۔

عُٹا عُٹا۔ (ع۔ یا۔ امث) (۱۔ عمارہ) (۲) متواتر پینے کی آواز۔ بغیر سانس لیے پینے کی کیفیت۔ ایک دم۔

غائب کھیلنا۔ (۱۔ عمارہ) بیٹھ موڑ کر شطرنج کھیلنا۔

غائب ہونا۔ (۱۔ عمارہ) پوشیدہ ہونا۔ چھپنا۔ چوری ہونا۔ چوری جانا۔

غائبانہ۔ (ع۔ یا۔ مذ) (۱۔ ع۔ ف۔ تا۔ جمل) غیر حاضری میں بغیر موجودگی میں بیٹھنا۔

غائب۔ (ع۔ صفت) (۱) گہرا (۲) وسیع۔ نشیب۔ جمع، غائبرین۔

غائبی۔ (ع۔ صفت) آخری۔ غایت سے منسوب۔

غایبیت۔ (ع۔ صفت) (۱) غرض۔ مطلب (۲) مہنت۔ آخر۔ انجام۔ جمع، غایبات۔

غایت الأمر۔ (ع۔ متعلق فعل) انجام کار۔ آخر کار۔

غایت درجہ۔ (ع۔ ف۔ صفت) حد درجہ۔ اہتائی۔

ع۔ ب

عُقب۔ (ع۔ ا۔ امث) باری کا بخار۔ فوجی بخار۔

عُقبار۔ (ع۔ ب۔ ا۔ مذ) (۱) گرد۔ دھول۔ خاک (۲) گرد ملی ہوئی ہوا (۳) رنج۔ طال۔ آرزوی (۴) ایک خط کا نام۔

عُقبار آلود۔ عُقبار آلودہ۔ (ع۔ ف۔ صفت) (۱) گرد میں بھرا ہوا (۲) ہٹی میں اٹا ہوا۔

عُقبار آنا۔ (۱۔ عمارہ) دل میلا ہو جانا۔ کدورت پیدا ہو جانا۔

عُقبار اٹھنا۔ (۱۔ عمارہ) (۱) زمین سے گرد کا بلند ہونا (۲) اُٹھنا آنا۔ اُٹھنا

اُٹھنا (۳) طال ڈور ہو جانا۔ تعلقات کا بحال ہو جانا۔

عُقبار بڑھانا۔ (۱۔ عمارہ) کدورت زیادہ کرنا۔ طال بڑھانا۔

عُقبار پھٹنا۔ (۱۔ عمارہ) (۱) دل میں کدورت پیدا ہو جانا (۲) اڑی ہوئی گرد کا بیٹنا

عُقبار پھٹنا۔ (۱۔ عمارہ) (۱) گرد کا پھیل کر کسی جگہ اکٹھا ہونا (۲) دُخندھا جانا۔

عُقبار پھٹنا۔ (۱۔ عمارہ) (۱) ضلع صفائی ہو جانا (۲) گرد کا بیٹھ جانا۔

عُقبار خاطر۔ (ع۔ ا۔ مذ) دل کا نسل۔ کدورت۔ رنج۔ طال۔

عُقبار راہ۔ (ع۔ ا۔ مذ) راہ میں اڑنے والی گرد۔

عُقبار رکھنا۔ (۱۔ عمارہ) کدورت رکھنا۔ رنج رکھنا۔

عُقبار نکالنا۔ (۱۔ عمارہ) دل کی کدورت کا اُقبار کرنا۔ دل کی بھڑاس نکالنا۔

رنج کی باتیں کرنا۔ مخالفت کرنا۔

عُقبار ہونا۔ (۱۔ عمارہ) ہوا میں گرد ہونا (۲) آپس میں رنجیدگی ہونا (۳) آنکھوں سے کم نظر آنا۔

عُقبارا۔ (ع۔ یا۔ ر۔ ا۔ مذ) (۱) ایک باریک کاغذ کا بنا ہوا قسلا جس کے

اند تیل میں ترکی ہوئی گیند رکھ کر اور اسے روشن کر کے ہوا میں اڑاتے

ہیں (۲) ایک قسم کی آتش بازی (۳) ہوا میں اڑنے والا ایک قسم کا بیلون۔

(Balloon) (۴) گولا (۵) بڑی تنگ منہ کی تھیلی جس میں ہوا بھر کر اسے کھینچتے ہیں

عُقبار سے ہوا نکالنا۔ (۱۔ عمارہ) شیخی کر کر کرنا۔ غمزور ٹوٹنا۔

عُقبار دُت۔ (ع۔ یا۔ دُت) (ع۔ ا۔ امث) کم نہیں۔ گندہ ذہنی۔

عُقباط۔ (ع۔ ب۔ نکر) (ع۔ ا۔ مذ) کسی کی دولت پر اُس کے زوال کی خواہش کے

بیزرشک کرنا۔ رشک۔ برابری کی خواہش۔

عُقبغ۔ (ع۔ ب۔ نکر) (ع۔ ا۔ مذ) ٹھوڑی کے بیٹے کا لشکا ہوا گوشت۔

عُقبین۔ (ع۔ بنی) (ع۔ ا۔ مذ) (۱) خود بُرد۔ امانت میں خیانت۔ دغا بازی۔

عزازہ کرنا۔ (۱- محاورہ) دوا کی کٹی کرنا۔

عزاز۔ (ق-صفت) سرکش۔ مغزور۔ متکبر (۲) شجاع۔ بہادر۔
عزازی۔ سرکشی۔

عزازلی۔ (عز-ماں) (ق-صفت) (۱) خول خوار (۲) دھارنے والا۔ گھسنے والا۔
عزازنا۔ (عز-نا) (نا-اُڑ-مسن) (صفت) کی آواز نکالنا (۲) دہڑانا۔ عزز کرنا۔ ڈرانا۔
گھر گنا (۳) گزراں نعت کرنا۔

عزازہٹ۔ (ا-صفت) عزز آنے کی آواز۔

عزازتیب۔ (عز-را۔ اب) (ع-ا۔ مذ) (۱) عجیب وغریب۔ اونکھے۔ نوادر عجیب
کی جمع یعنی عجیب۔

عزب۔ (ع-ا۔ مذ) (۱) سورج ڈوبنے کی جگہ (۲) نگاہ سے اوجھل ہونا مغرب ہیچم
عزبا۔ (عز-با) (ع-ا۔ مذ) غفلت۔ ناچار (۲) مسافر پر دلہی۔ مغرب کی جمع۔

عزبال۔ (عز-بال) (ع-ا۔ مذ) (۱) چھلنی (۲) پیٹ کا ہلکا کم ظرف۔

عزبت۔ (عز-بت) (ع-ا۔ مذ) (۱) مسافر۔ بے وطنی (۲) مغلی۔

عزبت اندر وطن۔ (ع-ا۔ مذ) (۱) صوفیاء اور مستوفیوں کی ایک اصطلاح
جب انسان صفات خدا میں محو ہو کر صفات بشری سے علیحدہ ہو جاتا ہے۔
تو اس حالت کو عزبت اندر وطن کہتے ہیں (۲) بے چارگی۔

عزبت دیدہ۔ عزبت زدہ۔ عزبت کا مارا۔ (ع-ا۔ مذ) (صفت) (۱)
پر دلہی میں (۲) غفلت۔ محتاج (۳) وطن سے دوری کا ستا یا ہوا۔

عزبلی۔ (عز-لی) (ع-صفت) مغرب سے منسوب مغرب کارہنے والا (۲) سُرنگ بھوکا شرب
عزبچہ۔ (ع-ا۔ مذ) (۱) گھنی بھاڑی

عزبش۔ (عز-بش) (ق-ا-صفت) (۱) ناراض ہونا بخفتہ ہونا۔ عزز آنا۔ عیبیت۔

عزبض۔ (عز-بض) (ع-ا۔ مذ) (۱) مطلب۔ ضرورت (۲) حاجت۔ پروا (۳)
ارادہ (۴) ہدف۔ نشانہ (۵) حاصل کلام قصہ مختصر۔ پس (۶) کلام تعلق جمع۔ اعزاز

عزب آشتا۔ عزب آلود۔ عزب آمیز۔ (ع-صفت) (۱) مطلبی۔ خود عزب۔
لاہلی۔ حریص (۲) اپنی الوقت۔ توتخ پرست۔

عزب اسچی ہونا۔ عزب انگنا۔ (۱- محاورہ) (۱) کام آپڑنا۔ مطلب ہونا۔
لاہلی ہونا۔ ضرورت ہونا۔

عزب باؤلی ہوتی ہے۔ (۱- مثل) مطلب آدمی کو دیوانہ بنا دیتا ہے۔

عزب پڑنا۔ (۱- محاورہ) (۱) کسی سے کچھ کام ہونا۔ حاجت ہونا۔

عزب چنانا۔ (۱- محاورہ) ضرورت سے باخبر کرنا (۲) کچھ مانگنا۔

عزب کو گوئے عذابست جان مجنوں را (ع-ا۔ مذ) (۱) مجنوں کی جان کے لیے دو ہرا
بلائے صحبت لیلی و فرقت لیلی (ع-ا۔ مذ) (۱) صحبت کی
بل اور اس کی بعد کی ہر طرح مشکل ہے۔

عزب ڈالنا۔ (۱- محاورہ) (۱) کام پڑنا (۲) کسی کے متعلق کوئی کام ڈالنا۔

عزب رکھنا۔ (۱- محاورہ) (۱) مطلب رکھنا (۲) امید رکھنا (۳) آرزو رکھنا۔

عزب کا آشتا (دوست۔ یار)۔ (۱- مثل) (۱) مطلبی دوست (۲)
خود عزب دوست۔

عزب کا باؤلا۔ (۱) حاجت مند (۲) مطلب کا غلام۔ مطلبی۔ لاہلی۔

عزب کا باؤلا اپنی گاؤ سے۔ (۱- مثل) عزبند اپنی ہی بات کی دوسن
میں لگا رہتا ہے۔ دوسرے کی نہیں سنتا۔

عزب کہ (عز-صنیکم)۔ (ع-متعلق فعل) حاصل مطلب یہ ہے۔ قصہ مختصر یہ ہے
عزب کے لیے گدھے کو باب بنانا پڑتا ہے۔ (۱- مثل) اپنا کام نکالنے
کے لیے ذیل سے ذیل کی بھی خوشامد کرنی پڑتی ہے۔

عزب مند۔ (ع-ا۔ مذ) (۱) صفت حاجت رکھنے والا جس کا کام اٹکا ہو (۲) مطلبی۔
عزب نکالنا۔ (۱- محاورہ) مطلب سیدھا کرنا۔ حاجت پوری کر لینا۔

عزب نکالنا۔ (۱- محاورہ) مطلب براری کرنا۔ کام نکل جانا۔ مقصد حاصل
ہو جانا۔

عزب نکلی آنکھ بدلی۔ (۱- مثل) مطلب پورا ہو جانے پر پروا نہ کرنا۔

عزب ہونا۔ (۱- محاورہ) مطلب ہونا۔ واسطہ ہونا۔ کام پڑنا۔ تعلق ہونا۔

عزبھی۔ (عز-ہی) (ع-ا۔ مذ) (۱) لاجبی۔ عزب مند۔ مطلبی۔

عزبہ۔ (عز-ہ) (ع-ا۔ مذ) (۱) عزازہ۔ لگی۔

عزبات۔ (عز-ت) (ع-ا۔ مذ) (۱) عزب کی جمع۔ دوپچے کھڑکیاں۔

عزبش۔ (عز-بش) (ق-ا-صفت) (۱) دھکی۔ نکلنا۔ غصہ (۲) عزز آنا۔

عزبہ۔ (عز-بہ) (ع-ا۔ مذ) (۱) بالاعانہ۔ برآمدہ۔ کھڑکی۔ درپچہ (۲) خلوت۔
گوشہ تہنائی۔

عزب کی بات۔ (ع-ا۔ مذ) (۱) پریشدہ بات۔ راز مخفی۔ بھید۔

عزق۔ (ع-صفت) (۱) ڈوبا۔ مزین (۲) محو (۳) اوجھل۔ غائب (۴)
نشے میں پور۔

عزق کرنا۔ (صفت) (۱) پانی کے نیچے پھینا دینا (۲) محو کرنا۔

عزق ہونا۔ (صفت) (۱) ڈوبنا۔ پانی کا سر سے گند جانا (۲) بہت صرف
اور مشغول ہونا (۳) نشے میں پور ہونا۔

عزق تاب۔ (عز-تاب) (ق-صفت) پانی میں ڈوبا ہوا۔

عزقی۔ (عز-قی) (ا-صفت) ڈوبا ہوا۔ عزق شدہ۔ ڈوبنے والا۔ پانی میں ڈوبی
ہوئی زمین۔

عزقی آنا۔ (۱- محاورہ) سیلاب آنا۔

عزکی۔ (ع-ا۔ مذ) (۱) ڈر۔ وحشت۔

عزوب۔ (عز-وب) (ع-ا۔ مذ) (۱) سورج یا چاند ڈوبنا (۲) زوال۔ خاتمہ۔
عزوب ہونا۔ (صفت) (۱) چھینا۔ ڈوبنا (۲) غائب ہونا۔ روپوش ہونا
(۳) زوال پذیر ہونا۔

عزور۔ (عز-ور) (ع-ا۔ مذ) (۱) گھنڈ۔ ناز۔ اگر۔ فخر۔ تکبر۔ خود بینی۔ ایمان۔

عزور آنا۔ عزور کرنا۔ عزور ہونا۔ (۱- محاورہ) گھنڈ کرنا۔ اگر کرنا تکبر کرنا۔

عزور توڑ دینا۔ عزور ڈھا دینا۔ (۱- محاورہ) تکبر اور عزور کو نچا دکھا دینا۔

عزور ٹوٹ جانا۔ عزور نکل جانا۔ (۱- محاورہ) (۱) تکبر کی عادت کا ختم ہو جانا
(۲) اگلنے والے کا نچا دیکھ لینا (۳) تکبر کا راہ راست پر آ جانا۔

عزور حسن و جمال۔ (ق-ا-صفت) حسن اور عزور یعنی کا گھنڈ۔

عزور کا سہنہ نیچا۔ (۱- مثل) عزور کرنے والے کو مزاج جاتی ہے۔

عزورہ۔ (عز-ورہ) (ع-ا۔ مذ) (۱) دیکھے عزرا۔ گھنڈ۔ عزور (۲) نافذ۔ تعطیل۔

عزوب۔ (عز-وب) (ع-صفت) (۱) غفلت۔ ناچار (۲) مسافر۔ ایسی۔ پردہلی۔

(۳) نا درشے۔ عجیب۔ جمع۔ عزبا۔ عزبیاں۔

عزوب آزار۔ (ع-صفت) عزبوں کو ستانے والا۔

غریب الدیار (غریب الوطن) - (غ - ا - مذ) (۱) مسافر - پردیس - بلے وطن - بے گھر - غریب پرورد - (غ - ف - صفت) غریبوں کو پالنے والا - فیاض - سخی - غریب حرام زادہ - (۱) مثل (۱) وہ شخص جس کی صورت مسکینوں کی سی ہو اور اعمال بد معاشوں کے سے - غریب خانہ - (غ - ف - ا - مذ) اپنا گھر (کساری کا کلمہ) بھونپڑا - غریب زادہ - (غ - ف - ا - مذ) (۱) غریب کا بیٹا (۲) رنڈی کا بیٹا - حرام زادہ - غریب عزبا - (غ - ا - مذ) (۱) محتاج - محلس لوگ - غریب کی جو روسب کی بھائی - (۱) مثل (۱) غریب پر سب کا پس چلتا ہے - غریب نواز - (غ - ف - صفت) (۱) غریب پرور (۲) خواجہ زمین الدین پستی (جیری کا خطاب) -

غزال - (غ - زال) (غ - ا - مذ) ہرن کا بچہ (۲) ہرن - جمع : غزالاں - غزال چشم - (غ - ف - صفت) بڑی بڑی آنکھوں والا - ہرن کی سی آنکھوں والا - مشق - غزال قطن - (غ - ف - صفت) شہر قطن کا آہر - مشق - غزال رعنا - (غ - ف - صفت) مشق - غزال کعبہ - (غ - ا - مذ) سونے کا ہرن جو زمانہ جاہلیت میں زم زم میں پایا گیا اور اسے کعبہ میں لٹکا دیا گیا تھا - غزالہ - (غ - ز - ل) (غ - ا - مذ) (۱) ہرن کا مادہ بچہ - غزال کی تائینٹ - غزالی - (غ - ز - ل) (غ - صفت) مشق پر غزالہ جو طوس میں ایک گاؤں ہے - امام محمد غزالی -

غریب نوازی - (غ - ف - ا - مذ) مہربانی - پرورش - غریب الوطنی - (غ - ا - مذ) مسافرت - وطن سے دور ہونا - غریبوں نے روزے رکھے دن برسے ہو گئے - (۱) نیک کام میں دستاوی پیدا ہونا (۲) مجلسی کو ہزار مصیبتیں - غریبوں کی شامت آتی ہے - غریبا مشو - (غ - ری - با - تم - اؤ) (۱) دال (۲) دال دیا - غریبوں جیسا روکھا سوکھا (۳) غریبوں کی بستی - غریبانہ - (غ - ری - با - مذ) (غ - ف - صفت) غریب کی مانند - غریبوں جیسا - غریبی - (غ - ری - بی - ل) (غ - ا - مذ) (۱) محتاجی - مجلسی (۲) مسافرت - عاجزی - غریبی آنا - (۱) محاورہ (۲) محتاج ہونا - غریزی - (غ - ری - بی - ل) (غ - صفت) (۱) طبعی - حظی - حقیقی - غزلیق - (غ - ری - ل) (غ - صفت) ڈوبا ہوا - سیا ہوا - عو - غزلیق رحمت - (غ - صفت) مرحوم - مغفور - رحمت خداوندی میں ڈوبا ہوا - غزلیق رحمت ہو - (۱) دعا خدا رحمت میں غزلیق کرے - خدا بخشے - غزلیق - (غ - ری - ل) (غ - ا - مذ) (۱) فریاد - گرج - شور - چیخ - مہکار -

غزل - (غ - ز - ل) (غ - ا - مذ) (۱) عورتوں سے باتیں کرنا - عورتوں کے حسن و جمال کی تعریف کرنا (۲) نظم کی ایک صنف جس میں عشق و محبت کا ذکر ہوتا ہے - غزل کا ہر شعر ہذا گانہ مضمون کا حامل ہوتا ہے - اس کا پہلا شعر مطلع اور آخری مطلع کہلاتا ہے - غزل بٹانا - (۱) محاورہ (۲) غزل کی اصلاح کرنا - غزل پر دوا - (غ - ف - صفت) غزل گوش مر - غزل پڑھنا - (۱) محاورہ (۲) غزل سنانا - غزل پھینکی پڑھنا - غزل ٹھنڈی ہو جانا - (۱) محاورہ (۲) دوسرے غزل پر دانا ان کے مقابلہ پر غزل کا رنگ بد جانا - غزل چمکانا - (۱) محاورہ (۲) غزل کو اصلاح دے کر بہتر بنا دینا - غزل چمکنا - (۱) محاورہ (۲) غزل کی تعریف ہونا - غزل کا مشاعرے میں مقبول ہونا - غزل خواں - (غ - ف - صفت) غزل پڑھنے والا - غزل سرا - (غ - ف - صفت) ترنم سے غزل پڑھنے والا - غزل کہنا - (۱) محاورہ (۲) غزل کہنا - شقیہ شعر کہنا - غزل گو - (غ - ف - صفت) غزل کہنے یا سنانے والا - شاعر - غزل گوئی - (غ - ف - ا - مذ) (۱) مشق - غزل کہنے کا فن - غزل مسلسل - (غ - ا - مذ) (۱) مشق - وہ غزل جس میں کوئی مسلسل مضمون بیان کیا گیا ہو -

ع - ٹ

عزایب - (ع - ز - ا) (ع - ا - مذ) (۱) پانی میں غوطہ کھانے یا ڈوبنے کی آواز - عزایب سے - (۱) استعجاب (۲) جلدی سے - آنا ٹانا - عزایب - (ع - ز - ا) (ع - ا - مذ) (۱) ڈوبنے کی آواز (۲) پک چھینکے - آنا ٹانا - عزایب شریب - (۱) صفت (۲) جلدی کھا جانا (۳) جلد جلد باتیں کرنا - عزایب ہونا - (۱) محاورہ (۲) غوطہ کھانا (۳) -

عزلیت - (ع - ا - مذ) (۱) مشق - غزل کی کیفیت یا خوبی - عزلیوی - (ع - ز - ل) (ع - ا - مذ) (۱) غزلی کا رہنے والا (۲) دکھنا (۳) سلطان محمود غزنوی - عزوہ - (ع - ز - ل) (ع - ا - مذ) (۱) وہ جہاد جس میں رسول مقبول صلعم شریک ہوئے (۲) دینی جنگ - جمع : عزوات -

غ - س

غشال - (غ - ض - سال) (غ - ا - مذ) (۱) پھلانے والا (۲) مردے کو پھلانے والا - غشالہ - (غ - ض - ل) (غ - ا - مذ) (۱) پھلانے والی (۲) مردوں کو پھلانے والی - غشالہ - (غ - ض - ل) (غ - ا - مذ) (۱) دھوون (۲) استعمال شدہ پانی (۳) -

غ - ز

غزوا - (غ - ز - ا) (غ - ا - مذ) مذہبی جنگ - جہاد - جمع : غزوات - غزوات - (غ - ا - مذ) غازی کی جمع - دین کے دشمنوں کو مارنے والے -

وہ پالی جس سے لائق نہ دھویا جائے اور دھونے کے بعد پھینک دیا جائے۔
 غسل - (ع-ا-ذ) نہانا۔ اشان - جسم کو دھونا۔
 غسل خانہ - (ع-ف-ا-ذ) نہانے کا گھر۔ بائد روم - حمام۔
 غسل دینا - (ا-محاورہ) مڑسے کو نہلانا۔ نہلانا۔
 غسل صحت - (ع-ا-ذ) (ا) بیماری سے اچھا ہونے پر نہانا (۲) اچھا ہونے کی تقریب منانا۔
 غسل کرنا - (مص-مرکب) نہانا۔
 غسل کی حاجت ہونا - (ا-محاورہ) (ا) احتلام ہو جانا (۲) بدن ناپاک ہو جانا۔
 غسل میت - (ع-ا-ذ) مڑسے کو نہلانا۔

غصۃ پڑھنا - (ا-محاورہ) طیش آنا۔ غمگی ہونا۔ غصہ آنا۔
 غصۃ دلانا - (ا-محاورہ) غمگن کرنا۔ ناراض کرنا۔
 غصۃ سے جھوٹ ہو جانا - (ا-محاورہ) غصۃ کے مارے آپے سے باہر ہو جانا۔
 غصۃ کرنا - (ا-محاورہ) خفا ہونا۔
 غصۃ کی آنکھ - (ا-مشت) (ا) غصۃ کا عجز۔ غصۃ میں اول ذل بننا۔
 غصۃ کی جھا بھج - (ا-مشت) غصۃ کا عجز۔ غصۃ سے غصۃ ظاہر ہو۔
 غصۃ میں بھر جانا - غصۃ میں بھرنا - (ا-محاورہ) بہت ناراض ہونا۔
 غصۃ میں لال ہونا - (ا-محاورہ) غصۃ کے مارے آپے سے باہر ہو جانا۔
 غصۃ ناک پر ہونا - (ا-محاورہ) جلد غصۃ آنا۔
 غصۃ نکالنا - (ا-محاورہ) غصۃ کا اظہار کرنا (۲) بدلہ لے کر دل ٹھنڈا کرنا۔
 غصۃ در - (ع-ف-ص) بد مزاج۔ جسے جلد غصۃ آئے۔
 غصۃ میں آگ ہونا - (ا-محاورہ) بہت خفا ہونا۔
 غصۃ ہونا - (ا-محاورہ) خفا ہونا۔ ناراض ہونا۔
 غصیل - غصیل - (ع-مسیل - ع-صے - لا) (ا-ر-ص) بد مزاج۔ غصۃ در۔

ع-ش

عش - (ف-ا-ذ) بے ہوشی۔ ناواقفی۔
 عش آنا۔ عش آجانا۔ عش پڑنا۔ عش کرنا - (ا-محاورہ) بے ہوش ہو جانا۔
 عواس کھو بیٹھنا۔ کم نسیم رہ جانا۔ حیرت زدہ ہونا۔ عشی طاری ہو جانا۔
 عش پر عش آنا - (ا-محاورہ) کسی مدد سے کے باعث بار بار بے ہوش ہو جانا۔
 عش طاری ہونا - (ا-محاورہ) بے ہوش ہونا۔
 عش ہونا - (ا-محاورہ) بے ہوش ہونا (۲) فریفتہ ہونا۔ عاشق ہونا۔
 عش - (ع-ا-مشت) (ا) کدورت۔ تشویش (۲) کھونا۔ پن۔
 عشی - (ع-ش) (ف-ا-مشت) بے ہوشی۔

ع-ض

ع-ص

غضب - (ع-ا-ذ) (ا) اناجڑ قبضہ (۳) زبردستی کرنا۔
 غضب کرنا - (ا-محاورہ) زبردستی قبضہ کر لینا۔ غیانت کرنا۔ کسی کا حق چھین لینا۔
 غضب ہونا - (ا-محاورہ) خورد برد ہو جانا۔ ہتھیایا جانا۔
 غضباً - (ع-ص-بن) (ع-ف-ت) تابع نفل زبردستی۔ ناجائز طور پر۔
 غضبی - (ع-ض-بن) (ع-ص) غضب کیا ہوا۔ غضب کرنے والا۔ غائب۔
 غصۃ - (ع-ض-ص) (ع-ا-ذ) (ا) برہمی۔ غمگی۔ ناراضی۔ غصہ۔ غصہ۔
 غصۃ آنا - (ا-محاورہ) خفا ہونا۔ ناراض ہونا۔ طیش آنا۔
 غصۃ آنا کرنا - (ا-محاورہ) کسی کو سزا دے کر اپنی تسکین کر لینا۔ کسی پر خفا ہو کر اپنا دل ٹھنڈا کر لینا۔
 غصۃ اترنا - (ا-محاورہ) کسی پر خفا ہونا۔ غمگی دور ہو جانا۔ بخار نکلنا۔
 غصۃ اٹھانا - (ا-محاورہ) کسی کی غمگی کو برداشت کرنا۔
 غصۃ بڑا عقل مند ہوتا ہے - (ا-مثل) (ا) زبردستی پر کسی غصۃ نہیں پڑتا۔
 غصۃ در غصۃ میں بھی انجام کا خیال رکھتا ہے۔
 غصۃ مینا - غصۃ بی جانا۔ غصۃ کھوک دینا۔ غصۃ مارنا - (ا-محاورہ) ضبط کرنا۔ برداشت کرنا۔ غمگی سے باز آنا۔ راضی ہو جانا۔

غضب - (ع-ا-ذ) (ا) آنکھیں بند کرنا۔ جھکنا۔
 غضب بصر - (ع-ا-ذ) (ا) نہنگا میں جھکنا۔
 غضب - (ع-ض-ص) (ع-ا-ذ) (ا) قہر۔ غصۃ (۲) آفت - مصیبت (۳) بے انصافی۔ ظلم (۴) کلمت حیرت اور کلمت مبالغہ یعنی بہت۔ از حد۔ (۵) بے جا بات (۶) اندھیر۔ زبردستی (۷) ٹڑھ پڑھ کر (۸) اچھا۔ عمدہ۔
 غضب آلود - (ع-ف-ص) غصۃ میں بھرا ہوا۔
 غضب آنا - غضب ٹوٹ پڑنا۔ غضب ٹوٹنا - (ا-محاورہ) عذاب آنا۔ مصیبت آنا۔ آفت آنا۔ شامت آنا۔ غصۃ آنا۔
 غضب الہی - (ع-ا-ذ) خدا کا قہر۔
 غضب پڑنا - (ا-محاورہ) آفت آنا۔ عذاب الہی میں گرفتار ہونا۔ صدمہ پہنچنا۔
 غضب توڑنا۔ غضب ڈھانا - (ا-محاورہ) خدا برپا کرنا۔
 غضب خدا کا - (ا-ذ) (ا) خدا کا خوف کرنا (۲) حیرت اور تعجب ظاہر کرنے کا کلہ۔
 غضب ڈھانا - (ا-محاورہ) اونگھی بات کرنا (۲) آفت برپا کرنا۔ ظلم کرنا۔
 غضب کا دیدہ ہونا - (ا-محاورہ) بہت بے شرم اور ڈھیٹ ہونا۔
 غضب کا سامنا - (ا-ذ) بڑا وقت پڑنا۔
 غضب کی - (ا-ص) (ا) بے طرح۔ از حد (۲) تعریف کے قابل۔
 غضب میں آنا - (ا-محاورہ) مصیبت میں غصن جانا۔
 غضب میں پڑنا - (ا-محاورہ) جھگڑے میں پڑنا۔ مصیبت میں گرفتار ہونا۔
 غضب ناک - (ع-ف-ص) خفا۔ غصۃ میں بھرا ہونا۔
 غضب ناک کرنا - (ا-محاورہ) غصۃ دلانا۔
 غضب ناک ہونا - (ا-محاورہ) غصۃ میں بھر جانا۔ خفا ہونا۔ آپے سے باہر ہونا۔
 غضب نازل ہونا - (ا-محاورہ) آفت آنا۔ خدا کا قہر کرنا۔

ع۔ل

عَل - (ف۔ا۔ذ) شور۔ ہنگامہ۔ چیخ و ہوا (ع) (۲) زنجیر طوق۔
عَل میرا ہونا۔ (ا۔معاورہ) شور اٹھنا۔ بڑھنا۔ خفا برپا ہونا۔
عَل عیناً ژا۔ (۱) بے حد شور و خفا۔ حد سے زیادہ چیخ و ہنگامہ۔
عَل کرنا۔ عَل چمانا۔ (مص۔مرکتب) شور چمانا۔ ہنگامہ کرنا۔
عَل۔ (ع۔ا۔ذ) کینہ۔ کدورت۔
عَلَاظِلَّت۔ (ع۔ل۔ظلت) (ع۔ا۔مٹ) (۱۱) گاڑھا پین (۲) کوڑا کرکٹ۔ گندگی
 بنناست۔ پاخانہ (۳) بول و برناز۔
عَلَاظِلَّت پھیلا نا۔ **عَلَاظِلَّت** کرنا۔ (ا۔معاورہ) گندگی پھیلانا۔ پاخانہ کرنا۔
عَلَاظ۔ (ع۔ل۔ظ) (ع۔ا۔مٹ) (۱۱) نیام۔ خانہ (۲) تیکہ۔ کبس وغیرہ کا اُپر
 کپڑا (۳) خول۔ بڑدان۔
عَلَاظ اُتارنا۔ (ا۔معاورہ) عَلَاظ بدلنا۔ عَلَاظ بدلا جانا۔ پردہ بدلنا۔
عَلَاظ چڑھانا۔ (ا۔معاورہ) تیکے یا کبس وغیرہ کو عَلَاظ کے اندر ڈالنا۔
عَلَاظ کعبہ۔ (ع۔ا۔ذ) وہ حملی عَلَاظ جسے ہر سال حج کے موقع پر
 کعبہ کی مرکزی عمارت پر چڑھایا جاتا ہے۔
عَلَاظِنا۔ (ع۔ل۔ظ) (نا۔اُڑ۔مص) (۱۱) سٹائی پاگن (۲) شیرے میں غوطہ دینا۔
 (۳) شہو چڑھانا۔
عَلَاظِی آنکھ۔ (اُڑ۔ا۔مٹ) پپوٹوں سے ڈھکی ہوئی آنکھ۔
عَلَام۔ (ع۔ل۔ام) (ع۔ا۔مٹ) (۱) لڑکا (۲) زر خرید نوکر۔ بندہ۔ ملازم (۳)
 انکسار کا کلمہ۔ نیاز مند۔ فدوی (۴) تاش کا ایک تصویر دار پتہ (۵) گنجد
 کے بارہ زرد پتوں کا نام۔ حج و عَمَلان۔
عَلَام اور جسے کو مٹھ نہ لگاٹھے۔ (ا۔مٹ) عَلَام سر چڑھ جاتا ہے اور
 چٹا کمانے کی عادت ہو جانے تو چھٹی بنیں۔
عَلَام بنانا۔ (ا۔معاورہ) مطیع کر لینا۔
عَلَام بے دام۔ (ع۔ف۔مٹ) سفٹ کا عَلَام۔ وہ شخص جو بہت زیادہ مٹوٹا
عَلَام زر خرید۔ (ع۔ف۔مٹ) (۱) مول لیا ہوا عَلَام (۲) خریدا ہوا چھوکر۔
 (۳) ادنی عَلَام۔
عَلَام کا تلام۔ (۱) عَلَام کا عَلَام (۲) ادنی درجہ کا عَلَام۔
عَلَام کرنا۔ (ا۔معاورہ) مطیع بنانا۔ شیطنت بنانا۔
عَلَام گردش۔ (ع۔ف۔ا۔مٹ) (۱) دیوان خانہ اور زناں خانہ کی درمیانی
 دیوار اور برآمدہ (۲) خادموں کے بیٹھنے کی جگہ (۳) بھت دار راستہ۔
عَلَام مال۔ (ا۔ذ) وہ چیز جو مدتوں کام دے۔ وہ چیز جسے بے تکلف
 استعمال کریں۔
عَلَام ہونا۔ (ا۔معاورہ) مطیع ہونا۔ تابع ہونا۔
عَلَامِی۔ (ع۔لامی) (ف۔ا۔مٹ) (۱) علاقہ گوشی (۲) بندگی (۳) اطاعت (۴)
 قید (۵) اسپری۔
عَلَامِی اختیار کرنا۔ (ا۔معاورہ) ملازم ہو جانا۔ مطیع ہونا۔
عَلَامِی میں دینا۔ (ا۔معاورہ) خدمت میں دینا۔

عَضْب ہو گیا۔ (مگر حسرت) بہت برا ہوا۔
عَضْب ہونا۔ (ا۔معاورہ) (۱) خفا ہونا (۲) کام خراب ہونا۔
عَضْب ہے۔ (ا۔تابع فعل) رستم ہے۔ اندھیرے (۲) کمال ہے۔ سبحان اللہ
عَضْبِی۔ (عَض۔بن) (اُڑ۔ا۔مٹ) عیارہ۔ مگاہ۔
عَضْبِی۔ (عَض۔بن) (اُڑ۔مٹ) (۱) ظالم۔ عَضتہ در (مذ) (۲) ظالم شخص۔ عَضتہ والا
 شخص (مٹ) (۳) عَضتہ۔ عَضب۔
عَضْبِی آنا۔ (ا۔معاورہ) آفت آنا۔ عَضتہ آنا۔
عَضْبِی پابندی۔ (ا۔مٹ) وہ کنیز جو زیر عتاب ہو۔
عَضْبِی خانہ۔ (ع۔ف۔ا۔مٹ) (مذ) عَضتہ۔ عَضْب۔ قہر۔
عَضْبِی۔ (ع۔ض۔بن) (ع۔ا۔مٹ) (۱) شیر۔ بہادر۔
عَضْبِی۔ (ع۔ض۔بن) (ع۔ا۔مٹ) (۱) بہادری۔ شجاعت۔

ع۔ف

عَف۔ (ف۔مٹ) دبیز۔ خوب ٹھوک کر بُنا ہوا کپڑا۔ موٹا۔ گت۔
عَفّار۔ (عَف۔فار) (ع۔مٹ) بڑا بختی والا۔ پھیلنے والا۔ خدا کا صفاتی نام۔
عَفّاری۔ (عَف۔فار) (ع۔مٹ) (۱) عرب کے قبیلہ عَفّار سے نسبت۔
 رکھنے والا (۲) بہت بختی والا ہونا۔
عَفّان۔ (عَف۔ران) (ع۔ا۔مٹ) معافی بخشش۔ گناہ معاف کرنا۔
عَفّان مآب۔ **عَفّان** پناہ۔ (ع۔مٹ) مرحوم۔ بوشا ہوا۔ خدا کی پناہ میں۔
عَفّار۔ (ع۔ف۔ز۔ل) (ہو۔ع۔مٹ) (۱) اس کے لیے بخشش کی جائے (۲) خدا
 اس کی مغفرت کرے۔
عَفْلَت۔ (عَف۔لنت) (ع۔ا۔مٹ) (۱) بھول چوک۔ غلطی۔ خطا۔ قصور۔
 بے خبری۔ لا پرواہی (۲) اُدھک۔ بند۔ بے ہوشی۔
عَفْلَت پیشہ۔ **عَفْلَت** زدہ۔ (ع۔ف۔مٹ) (۱) غافل (۲) بے خبر۔
 (۳) عَفْلت کرنے والا۔
عَفْلَت چھانا۔ **عَفْلَت** طاری ہونا۔ **عَفْلَت** ہو جانا۔ (ا۔معاورہ) (۱)
 غافل ہو جانا (۲) اُدھکنا (۳) بے خبر ہو جانا۔
عَفْلَت سے۔ (ا۔مستقل فعل) بے پرواہی سے (۲) بے خبری سے۔ کم توجہ سے
عَفْلَت شمار۔ (ع۔مٹ) **عَفْلَت** کرنے والا۔ غافل۔
عَفْلَت کا پردہ (پڑنا) پڑ جانا۔ (ا۔معاورہ) بے خبر ہو جانا۔ مدہوش ہو جانا
عَفْلَت کرنا۔ (ا۔معاورہ) کرنا ہی کرنا۔ خبر لینا۔ بے پردائی کرنا۔
عَفْلَت کی نیند سونا۔ (ا۔معاورہ) غافل ہو کر سونا۔ گہری نیند سونا۔ بے خبر ہو جانا
عَفْلَتِی۔ (عَف۔لنت) (اُڑ۔مٹ) بے پردہ۔
عَفْطور۔ (ع۔ف۔ط) (ع۔مٹ) (۱) بڑا بختی والا (۲) گناہوں کا چھپانے والا۔
 (۳) اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام۔
عَفْطور الرحیم۔ (ع۔مٹ) (۱) بخشش اور رحم کرنے والا (۲) بختی والا ہیرا بن
 (۳) اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام۔
عَفْطور۔ (ع۔ف۔ط) (ع۔مٹ) (۱) عبط (۲) انبوہ۔ پیڑ۔

غلامی میں قبول کرنا۔ (۱- عمارہ) (۱) داماد بنانا (۲) اپنا وارث اور جانشین بنالینا (۳) عازم رکھنا۔
 غلبہ (غل) (ملا) (ق) (۱- مٹ) (۱) بے تابی۔ اضطراب (۲) جوش و خروش (۳) گڑبڑ۔ خزاں۔
 غلبے (غل) (کے) (ق) (۱- ذمہ القاب)۔
 غلبہ (غل) (ن) (ب) (۱- ذمہ) (۱) برتری۔ فرقیّت۔ حیثیت (۲) حملہ (۳) فراوانی۔ کثرت۔
 غلبہ پانا۔ (۱- عمارہ) (۱) فتح پانا۔ حیثیت جانا۔ اثر جالینا۔ سبقت لے جانا۔ غلبہ رائے۔ (۱- ع) (۱- مذ) (۱) کثرت رائے (۲) دونوں کی کثرت۔ نصف سے زائد تعداد کی رائے۔
 غلبہ کرنا۔ (۱- عمارہ) (۱) محو کرنا۔ پھڑکانا کرنا (۲) گھیر لینا (۳) ہجوم کرنا۔ غلبہ ہونا۔ (۱- عمارہ) (۱) غالب آنا۔ حملہ ہونا (۲) کثرت ہونا۔
 غلت (غل) (ت) (۱- مذ) حساب میں بھول چوک۔
 غلط (غل) (ظ) (۱- صفت) (۱) نادرت۔ ناسمجھ۔ کھوٹا۔ بے جا۔ غلط العام۔ تلفظ یا اطلاق غلط ہونے کے باوجود کثرت استعمال کے باعث صحیح تصور ہونے لگے۔
 غلط العوام۔ (۱) وہ لفظ جسے عوام نے غلط تلفظ یا معانی یا ردو بدل کے ساتھ بولنا شروع کر دیا ہو وہ غلطی قرار پاتا ہے۔
 غلط انداز۔ (۱- صفت) (۱) نگاہ یا تیر جو نشانے پر نہ لگے۔
 غلط بردار۔ (۱- صفت) (۱) کاغذ کھرنے کا اوزار (۲) وہ کاغذ جس پر سے حرف آسانی سے مٹے جا سکیں۔ غلط لفظ مٹنے والا۔
 غلط بیان۔ (۱- صفت) (۱) بھوٹا۔
 غلط بیانی۔ (۱- صفت) (۱) بھوٹا بات۔ بھوٹ بولنا۔
 غلط ہیں۔ (۱- صفت) (۱) دوسروں کی غلطی ٹکانے والا۔ سچائی کو بھٹانے والا۔
 غلط ٹھہرانا۔ (۱- عمارہ) غلط ثابت کرنا۔ بھوٹا ٹھہرانا۔
 غلط در غلط۔ (۱- صفت) (۱) سر پر یا غلط۔ بالکل بھوٹ۔ ایک غلطی جو دوسری غلطی پر مبنی ہو۔
 غلط سلسلہ۔ (۱- صفت) (۱) گڑبڑ۔ خلاف حقیقت۔ بھوٹ سچ۔
 غلط سمجھنا۔ (۱- عمارہ) بھوٹ سمجھنا۔
 غلط فہم۔ (۱- صفت) (۱) نا سمجھ۔ بات کو غلط سمجھنے والا۔
 غلط نہیں۔ (۱- صفت) (۱) مٹا نہیں۔ بے سمجھی۔ بھول چوک۔
 غلط فیصلہ۔ (۱- صفت) (۱) فیصلہ جو انصاف کے مطابق نہ ہو۔
 غلط کاری۔ (۱- صفت) (۱) مٹا۔ بد اعمالی۔ بد چینی۔
 غلط ٹکانا۔ (۱- عمارہ) (۱) بھوٹ ثابت ہونا (۲) جو پہلے سمجھا ہوا اس کے برعکس ثابت ہونا۔
 غلط نامہ۔ (۱) نہرست اغلاط (۲) صحت نامہ۔
 غلطان۔ (غل) (ط) (۱) (۱) صفت (۱) گول (۲) لڑھکتا ہوا۔ ڈھلکا ہوا۔
 (۳) چکر چکر گول چیز کا حرکت میں آنا (۴) گرتا پڑتا۔
 غلطان و پچال۔ (۱) صفت (۱) اُلجھا ہوا (۲) ڈھیر بھٹی میں۔ گرتا پڑتا۔ پریشان۔

غٹک۔ (غل) (ک) (۱- مذ) (۱) کرڈٹ (۲) پیسہ (۳) پکر (۴) گول چیز (۵) گاڑی کی دھری۔
 غٹہ۔ (غل) (ط) (۱- مذ) (۱) موٹا ریشمی کپڑا (۲) میان۔ نیام۔ سسر پوش۔ غلات۔ ڈھکن۔
 غٹھی۔ (غل) (ن) (ط) (۱) ڈاڑ۔ (۱) مٹا چوک۔ نادرستی۔ ناسمجھی۔ کوتاہی۔ خطا۔ سہو۔ جمع: غٹھیاں۔ اغلاط۔
 غٹھی پڑنا۔ (۱- عمارہ) (۱) سہو ہونا۔
 غٹھی پکڑنا۔ (۱- عمارہ) (۱) غٹھی ٹکانا۔ نقص معلوم کر لینا۔
 غٹھی سے۔ (۱) مستحق فعل بھول سے۔ بھول کر۔
 غٹھی کھانا۔ (۱- عمارہ) (۱) خٹ کرنا۔ دھوکا کھانا۔ بھول جانا۔
 غٹھی میں پڑنا۔ (۱- عمارہ) (۱) چوک جانا۔ دھوکا کھا جانا۔
 غٹھی ٹکانا۔ (۱- عمارہ) (۱) نقص معلوم کرنا۔
 غٹھی ہونا۔ غٹھی پڑنا۔ (۱- عمارہ) (۱) بھول چوک ہونا۔ خطا ہونا۔
 غٹھت۔ (غل) (ت) (۱- صفت) (۱) گڑبھاب۔ کثیف ہونا۔ گندگی۔
 غٹھیم۔ (غل) (ت) (۱- مذ) ہنگامہ۔ شور و غل۔ دھوم۔ شہرت۔
 غٹھمہ ہونا۔ (۱- عمارہ) (۱) شہرت ہونا۔ چرچا ہونا۔
 غٹک۔ (غل) (ک) (۱- صفت) (۱) نقدی رکھنے کا برتن۔ گولک۔
 غٹک میں دھرنا۔ (۱- عمارہ) (۱) جیب میں رکھنا۔ جمع کرنا۔
 غٹمان۔ (غل) (ان) (۱- مذ) (۱) ڈھول لڑکے۔ جنت کے کم سن خادم۔
 غٹھا۔ (غل) (ن) (۱- مذ) (۱) غلام کی تصنیف۔ حقارت کے اظہار کا کلمہ۔
 غٹو۔ (غل) (و) (۱- مذ) (۱) حد سے گزر جانا (۲) بہت زیادہ مبالغہ۔
 غٹو کرنا۔ (۱- عمارہ) (۱) حد سے زیادہ مبالغہ کرنا۔
 غٹول۔ (غل) (و) (۱- مذ) (۱) غل مارنے کی کان۔
 غٹو لہ۔ (غل) (و) (۱- مذ) (۱) غلہ۔ گلہ۔ گولی۔
 غٹہ۔ (غل) (ت) (۱- مذ) (۱) اناج۔ دانہ۔ زمین کی پیداوار (۲) نقدی رکھنے کا صندوقچہ۔
 غٹہ بھرنا۔ (۱- عمارہ) (۱) اناج کا قلعہ کرنا۔
 غٹہ بھٹکانا۔ (۱- عمارہ) (۱) اناج کو صاف کرنا۔
 غٹہ ڈالنا۔ (۱- عمارہ) (۱) بچی کے گڑھے میں اناج کی گھٹی ڈالنا۔
 غٹہ فروش۔ (۱- صفت) (۱) اناج بیچنے والا۔
 غٹہ منڈی۔ (۱- صفت) (۱) وہ جگہ جہاں غٹہ لاکر فروخت کریں۔
 غٹہ۔ (غل) (ت) (۱) ڈاڑ۔ (۱- مذ) (۱) مٹی کی گولی یا لنگری جسے غٹیل میں لٹک کر چلاتے ہیں۔ غٹو (۲) بھوٹی سی گول شے۔
 غٹہ (بھینکن) چیلانا۔ (۱- عمارہ) (۱) غٹہ مارنا۔
 غٹہ مارنا۔ (۱- عمارہ) (۱) غٹیل کے ذریعے سے غٹہ چیلانا (۲) نشا نہ مارنا (۳) مزاحم ہونا۔
 غٹھی۔ (غل) (ن) (۱) (۱) ڈاڑ صفت (۱) غٹے کی صورت میں لگان۔
 غٹھیاں۔ (غل) (یا) (۱- صفت) (۱) جوش۔ غلبہ (۲) حقہ۔
 غٹھپ۔ (غل) (ن) (۱) صفت (۱) گاڑھا۔ ناپاک۔ گندا۔ بکس۔
 غٹھیل۔ (غل) (ن) (۱) ڈاڑ۔ (۱) مٹا۔ غٹھیلنے والی کمان۔ مٹی کی گولی یا لنگری

غلم میں جان کھونا۔ (۱۔ محاورہ) غم سے بے جان ہونا۔ بیت لگیں ہونا۔
 غم ناک۔ رنجیدہ۔ مایوس۔ اُداس۔
 غم ننداری بڑ بچہ۔ (ف۔ مثل) اگر تجھے کوئی غم نہیں تو بکری خرید لے۔ ایسے موقع
 بد کہتے ہیں جب کوئی ایسا کام کرے جس سے فکرو تردد لاحق ہو۔
 غم نہیں۔ (۱۔ محاورہ) پروا نہیں۔
 غمناز۔ (غم۔ ماز) (ع۔ صفت) چمٹا خمد۔ آنکھ سے اشارہ کرنے والا۔ طعنہ دینے
 والا۔ جیسے لگا رہنے والا۔

غمنازی۔ (غم۔ ماززی) (ف۔ اسمت) مخبری چنگیزی۔ جاسوسی۔
 غمزہ۔ (غم۔ ذہ) (ع۔ ۱۔ مذ) (۱) آنکھ کا اشارہ (۲) نخرو۔ ناز۔ معشوق
 کی ادا۔

غمزہ اٹھانا۔ (۱۔ محاورہ) ناز برداری کرنا۔
 غمزہ جانتال۔ (ع۔ ف۔ ۱۔ مذ) جمان لینے والا نخرو۔
 غمزہ (جبتانا) دکھانا۔ (۱۔ محاورہ) نخرو کرنا۔ ناز دکھانا۔ اترانا۔
 غمزہ کرنا۔ (۱۔ محاورہ) ناز کرنا۔ ادائیں دکھانا۔
 غمگدہ۔ (ع۔ ف۔ ۱۔ مذ) رنج، مصیبت اور تکلیفوں کا گھر۔
 غمگدہ عالم۔ (ع۔ ف۔ ۱۔ مذ) دنیا۔
 غمی۔ (غ۔ می) (ف۔ صفت) رنجیدہ۔ طول (۲) موت۔ ماتم۔
 غمی ہو جانا۔ (۱۔ محاورہ) موت ہو جانا۔
 غمیں۔ (ع۔ ف۔ صفت) دیکھے غمگین۔

غ۔ م

غم۔ (ع۔ ۱۔ مذ) رنج۔ دکھ۔ افسوس۔ صدمہ۔ طلال۔ حزن۔ الم۔ جمع: غوم۔
 غم آلودہ۔ (ع۔ ف۔ صفت) رنجیدہ۔ طول۔ غمناک۔ غموم۔
 غم اٹھانا۔ (۱۔ محاورہ) دکھ مٹانا۔
 غم اگیز۔ (ع۔ ف۔ صفت) غم پیدا کرنے والا۔
 غم پالنا۔ (۱۔ محاورہ) بچکر اپنے سر لینا۔ خواہ مخواہ کی کوئی مصیبت مول
 لے لینا۔
 غم پر غم گزرنانا۔ (۱۔ محاورہ) رنج پر رنج ہونا۔
 غم خفا نہ۔ غم کدہ۔ (ع۔ ف۔ ۱۔ مذ) غم کا گھر۔ ماتم کدہ۔
 غم خوار۔ (ع۔ ف۔ صفت) ہمدرد۔ دکھ درد کا شریک۔
 غم خواری۔ (ع۔ ف۔ ۱۔ صفت) دکھ درد میں شرکت۔ مصیبت میں کسی کا
 ساتھ دینا۔

غم خواری کرنا۔ (۱۔ محاورہ) ہمدردی کرنا۔

غم دیدہ (رسیدہ۔ زدہ)۔ (ع۔ ف۔ صفت) مصیبت زدہ۔ غم زدہ۔
 مصیبت کا مارا ہوا۔

غم دیکھنا۔ (۱۔ محاورہ) رنج و الم برداشت کرنا۔ صدمہ اٹھانا۔
 غم سے تمللانا۔ (۱۔ محاورہ) غم کی وجہ سے گھبرانا۔
 غم سے چھٹنا۔ (۱۔ محاورہ) غم سے نجات پانا۔
 غم سے کھلنا۔ (۱۔ محاورہ) غم کی وجہ سے ڈبلا یا بیمار ہو جانا۔ دکھ کے مارے
 نہ حال ہو جانا۔

غم غلط کرنا۔ (۱۔ محاورہ) دل بہلانا۔ تصریح کرنا۔ غم کو بھلانا۔

غم غلط ہونا۔ (۱۔ محاورہ) دل بہلنا۔ رنج و طلال دُور ہو جانا۔

غم فرا۔ (ع۔ ف۔ صفت) غم بڑھانے والا۔

غم کا پتلا۔ سراپا غم۔

غم کا مارا۔ (۱۔ مذ) مصیبت زدہ۔ رنجیدہ۔

غم کرنا۔ (مض۔ مرکب) رنج کرنا۔ افسوس کرنا۔ ماتم کرنا۔

غم کھانا۔ (۱۔ محاورہ) صدمہ اٹھانا۔ رنج سہنا۔ دکھ چوگانا۔

غم گسار۔ (ع۔ ف۔ صفت) غم خوار۔ ہمدرد۔

غم گساری۔ (ع۔ ف۔ اسمت) غم خواری۔ ہمدردی۔

غم لین۔ (ع۔ ف۔ صفت) رنجیدہ۔ اُداس۔

غم لین ہونا۔ (۱۔ محاورہ) غموم ہونا۔ رنجیدہ ہونا۔

ع۔ ن

عشنا۔ (ع۔ نا) (ع۔ ۱۔ مٹ) تو نگری۔ دولت مندی۔ بے نیازی۔ بے پرواہی۔

عشنا۔ (ع۔ نا) (ع۔ ۱۔ مذ) راگ۔ نغمہ۔ گانا۔

عشنا غم۔ (ع۔ نا۔ ام) (ع۔ ۱۔ مذ) مال غنیمت۔ ٹوٹ کا مال۔ غنیمت کی جمع۔

عشنائی۔ (ع۔ نا۔ ای) (ف۔ صفت) منسوب برعنا۔ نغمہ کا نغمہ کی۔

عشنا یشیت۔ (ع۔ نا۔ یشیت) (ف۔ ۱۔ مٹ) نغمے کی کیفیت۔ موسیقیت۔

عشنگی۔ (ع۔ ن۔ ج۔ گی) (ف۔ ۱۔ مٹ) گلی کی کیفیت۔ بند پھول کی مانند۔

عشنتہ۔ (ع۔ ن۔ یش۔ ز) (ف۔ ۱۔ مذ) پھول کی گلی۔ گلن ناشگفتہ۔ شکوہ۔

عشنتہ آرزو کھلنا۔ (۱۔ محاورہ) امید برآنا۔ مراد پوری ہونا۔

عشنتہ پڑ مردہ۔ (ف۔ ۱۔ مذ) کھلانی ہوئی گلی۔

عشنتہ پیشانی۔ (ف۔ صفت) تنگ ماتھے والا۔ بد مانع۔ تنگ پیشانی۔

عشنتہ پیکال۔ (ف۔ ۱۔ مذ) تیر کا پھل۔

عشنتہ لھویر۔ (ف۔ ۱۔ مذ) مرغ۔ نمونہ۔ نقشہ۔

عشنتہ چٹنا۔ (مض۔ مرکب) چمچہ پٹنا۔ کل کھلنا۔

عشنتہ سطر (دل)۔ (ف۔ صفت) نازک طبع۔ زود رنج۔

عشنتہ سطر شگفتہ ہونا۔ (۱۔ محاورہ) دل کی کھلنا۔ دل خوش ہونا۔

عشنتہ دل تنگ ہونا۔ (۱۔ محاورہ) غموم ہونا۔ رنجیدہ ہونا۔

عشنتہ دال۔ (ع۔ ف۔ صفت) (۱) چھوٹے منہ کا (۲) محبوب جس کا

سُنہ کلی کی طرح چھوٹا لیکن خوبصورت ہو۔
 چنچیر لیب - (ن۔ صفت) بند ہونٹ۔ محبوب کے لب۔ تازک اور حسین ہونٹ۔
 چنچیر ناٹک گتہ - (ع۔ ن۔ ف۔ ۱۔ ۱۔ مذ) (۱) بندگی (۲) دو شیزہ۔ کنواری۔
 خنڈا - خنڈہ (ع۔ ن۔ ۱۔ ۱۔ مذ) (۱) آڑ صفت) بد معاش۔ بد چمن۔ گنڈا۔ لڑائی
 ہلکا کرنے والا۔
 خنڈنا - (ع۔ ن۔ ۱۔ ۱۔ مذ) (۱) آڑ صفت) ناک میں بولنے والا۔
 خنڈنا نا - (ع۔ ن۔ ۱۔ ۱۔ مذ) (۱) آڑ صفت) ناک میں بات کرنا۔
 خنڈنی - (ع۔ ن۔ ۱۔ ۱۔ مذ) (۱) آڑ صفت) ناک میں بولنے والی عورت۔
 خنڈگڑھی - (ع۔ ن۔ ۱۔ ۱۔ مذ) (۱) آڑ صفت) بھکاری کا لباس۔
 خنڈم - (ع۔ ن۔ ۱۔ ۱۔ مذ) (۱) لٹ کا مال۔
 خنڈو کی - (ع۔ ن۔ ۱۔ ۱۔ مذ) (۱) آڑ صفت) آؤنگھ۔ نیند۔ غار۔ نشہ۔
 خنڈو کی آنا - (ع۔ ن۔ ۱۔ ۱۔ مذ) (۱) آڑ صفت) آؤنگھنا۔ نیند آنا۔
 خنڈہ - (ع۔ ن۔ ۱۔ ۱۔ مذ) (۱) آڑ صفت) آؤنگھنے کی آواز ناک سے نکلنے۔ ناک کی
 آواز۔ نختنا ہٹ۔
 خنڈی - (ع۔ ن۔ ۱۔ ۱۔ مذ) (۱) آڑ صفت) آسودہ۔ مطمئن۔ بے نیاز (۲) دولت مند۔ جمع اقلیاد۔
 خنڈم - (ع۔ ن۔ ۱۔ ۱۔ مذ) (۱) آڑ صفت) ڈاکو۔ دشمن۔
 آغٹیم پڑھ آنا - (ع۔ ن۔ ۱۔ ۱۔ مذ) (۱) آڑ صفت) دشمن کا ملک پر حملہ کر دینا۔
 خنڈمت - (ع۔ ن۔ ۱۔ ۱۔ مذ) (۱) آڑ صفت) لٹ کا مال۔ صفت مل ہوئی
 چیز (۲) قابل تدریج۔ جمع: خنڈم۔
 خنڈمت (جہاننا) سمجھنا - (ع۔ ن۔ ۱۔ ۱۔ مذ) (۱) آڑ صفت) مناسب سمجھنا۔ قناعت
 کرنا۔ کافی ہونا۔
 خنڈمت ہونا - (ع۔ ن۔ ۱۔ ۱۔ مذ) (۱) آڑ صفت) قابل تدریج ہونا۔ قابل شکر ہونا۔ کافی ہونا۔
 خنڈمت ہے - بہتر ہے۔ شکر کا مقام ہے۔ بہر حال خوب ہے۔

خوز کرنا - (ع۔ ن۔ ۱۔ ۱۔ مذ) (۱) آڑ صفت) سوچنا۔ دھیان کرنا۔ فکر کرنا۔ توجہ کرنا۔
 خوز و خوص - (ع۔ ن۔ ۱۔ ۱۔ مذ) (۱) آڑ صفت) سوچ۔ بچار۔
 خوز و فکر سے کام لینا - (ع۔ ن۔ ۱۔ ۱۔ مذ) (۱) آڑ صفت) سوچ۔ بچار سے کام کرنا۔
 خوزہ - (ع۔ ن۔ ۱۔ ۱۔ مذ) (۱) آڑ صفت) کھجور (۲) کھجوروں کا ایک رنگ۔
 خوزی - (ع۔ ن۔ ۱۔ ۱۔ مذ) (۱) آڑ صفت) افغانستان کے ایک شہر خوز سے منسوب۔
 خوز - (ع۔ ن۔ ۱۔ ۱۔ مذ) (۱) آڑ صفت) گپ۔ بے ہودہ بات (۲) شہنی۔
 خوزس (اڑانا۔ لگانا) لڑانا - (ع۔ ن۔ ۱۔ ۱۔ مذ) (۱) آڑ صفت) گپ ہانگنا۔ شہنیاں بچھانا۔
 ڈینگیں مارنا۔
 خوظ - (ع۔ ن۔ ۱۔ ۱۔ مذ) (۱) آڑ صفت) تنگ کا اوپر سے نیچے آنا (۲) بے ہوشی۔ ہنسی (۳) استغراق۔
 خوظ پر خوظ آنا - (ع۔ ن۔ ۱۔ ۱۔ مذ) (۱) آڑ صفت) عشق پر غم آنا (۲) بہت پسند آنا۔
 خوظ دینا - (ع۔ ن۔ ۱۔ ۱۔ مذ) (۱) آڑ صفت) کلکوں کے اوپر سے نیچے لانا (۲) ڈبکی دینا۔
 خوظ (لگانا) مارنا - (ع۔ ن۔ ۱۔ ۱۔ مذ) (۱) آڑ صفت) خیال میں غم ہونا۔ غائب رہنا۔
 خوظم چارہ - (ع۔ ن۔ ۱۔ ۱۔ مذ) (۱) آڑ صفت) چارہ (۲) آڑ صفت) بار بار ایک تنگ کو دوسرے
 پر گزانا اور ہٹانا۔
 خوظہ - (ع۔ ن۔ ۱۔ ۱۔ مذ) (۱) آڑ صفت) پانی میں ڈوبنا یا ڈوبنا۔
 خوظ خور - خوظ زن - (ع۔ ن۔ ۱۔ ۱۔ مذ) (۱) آڑ صفت) ڈبکی لگانے والا (۲) جل کوا۔
 خوظ دینا - (ع۔ ن۔ ۱۔ ۱۔ مذ) (۱) آڑ صفت) پانی میں ڈوبنا۔ پانی ڈال کر پاک کرنا۔ ڈوبنا (۲) ناغہ کرنا۔ دھوکا
 دینا۔ چھکے دینا۔
 خوظ کھانا - (ع۔ ن۔ ۱۔ ۱۔ مذ) (۱) آڑ صفت) عرق ہونا (۲) سہو ہونا (۳) دھوکا کھانا۔
 خوظ (لگانا) مارنا - (ع۔ ن۔ ۱۔ ۱۔ مذ) (۱) آڑ صفت) ڈبکی لگانا (۲) پوشیدہ ہونا (۳) غائب
 رہنا (۴) کسی خیال میں ڈوبنا۔
 خوظے میں پڑا رہنا - (ع۔ ن۔ ۱۔ ۱۔ مذ) (۱) آڑ صفت) چپ چاپ پڑا رہنا۔ بے حس و حرکت
 پڑے رہنا۔
 خوظے میں جانا - (ع۔ ن۔ ۱۔ ۱۔ مذ) (۱) آڑ صفت) کسی خیال میں غم ہونا (۲) ڈوبنا۔

خوفا - (ع۔ ن۔ ۱۔ ۱۔ مذ) (۱) آڑ صفت) ڈبکیوں کا ہجوم (۲) آدمیوں کا مجمع (۳) شور۔ غل۔
 رُڑ۔ ہنگامہ۔ غل بچاڑا۔
 خوفا کرنا - (ع۔ ن۔ ۱۔ ۱۔ مذ) (۱) آڑ صفت) شور مچانا۔
 خوفائی - (ع۔ ن۔ ۱۔ ۱۔ مذ) (۱) آڑ صفت) شور کرنے والا (۲) غل بچانے والا۔
 (۲) جھوٹا (۳) خاکستری رنگ کا ایک پرنڈ۔
 خوگ - (ع۔ ن۔ ۱۔ ۱۔ مذ) (۱) آڑ صفت) میٹلک۔
 خوگ - (ع۔ ن۔ ۱۔ ۱۔ مذ) (۱) آڑ صفت) گروہ۔ جمع: ٹولی (۲) فوج کا مرکزی حصہ (۳) دیو
 بھوت پریت۔ چھلاوہ۔
 خوگ بانڈھنا - (ع۔ ن۔ ۱۔ ۱۔ مذ) (۱) آڑ صفت) بھڑکنا۔ ٹولی بنانا۔ قطار بنانا۔
 خوگ بیا بیاں (بیا بیاں) - (ع۔ ن۔ ۱۔ ۱۔ مذ) (۱) آڑ صفت) بھوت پریت۔ چھلاوہ۔
 خوگ کے خوگ - (ع۔ ن۔ ۱۔ ۱۔ مذ) (۱) آڑ صفت) گروہ کے گروہ۔
 خوگک - (ع۔ ن۔ ۱۔ ۱۔ مذ) (۱) آڑ صفت) غلک۔ نقدی رکھنے کا برتن۔
 خوگ خال - (ع۔ ن۔ ۱۔ ۱۔ مذ) (۱) آڑ صفت) دودھ پیتے پیتے کے بولنے کی آواز۔
 خوگ خال کرنا - (ع۔ ن۔ ۱۔ ۱۔ مذ) (۱) آڑ صفت) خنڈے پینے کا ہونا۔
 خوگ خال - (ع۔ ن۔ ۱۔ ۱۔ مذ) (۱) آڑ صفت) کھجور کی آواز۔

خ۔و۔ع

خوآص - (ع۔ ن۔ ۱۔ ۱۔ مذ) (۱) آڑ صفت) خوظ خور۔
 خوآصی - (ع۔ ن۔ ۱۔ ۱۔ مذ) (۱) آڑ صفت) خوظ خوری۔ خوظ زنی۔ موتی نکالنے
 کے لیے دریا میں ڈبکی لگانا (۲) خوآص کا پیشہ یا کام۔
 خوآمض - (ع۔ ن۔ ۱۔ ۱۔ مذ) (۱) آڑ صفت) بھید۔ باریکیاں۔
 خوآیت - (ع۔ ن۔ ۱۔ ۱۔ مذ) (۱) آڑ صفت) گڑبگڑ۔
 خوآش - (ع۔ ن۔ ۱۔ ۱۔ مذ) (۱) آڑ صفت) فریاد کو پہنچنے والا (۲) اہل اسلام میں ولایت الہی
 کا ایک درجہ۔
 خوآش الاعظم - خوآش الثقلین - (ع۔ ن۔ ۱۔ ۱۔ مذ) (۱) آڑ صفت) شیخ عبدالقادر جیلانی۔ (۲) پیر
 صاحب کا لقب (۲) بڑا فریادرس۔
 خوآز - (ع۔ ن۔ ۱۔ ۱۔ مذ) (۱) آڑ صفت) سوچ۔ فکر۔ تامل (۲) خبر گیری۔ مصلحت۔
 خوآز پر داخیت - (ع۔ ن۔ ۱۔ ۱۔ مذ) (۱) آڑ صفت) خبر گیری۔ پرورش۔ رکھ رکھاؤ۔
 خوآز سے دیکھنا - (ع۔ ن۔ ۱۔ ۱۔ مذ) (۱) آڑ صفت) نظر سے دیکھنا۔ خوب اچھی طرح دیکھنا۔
 خوآز طلب - (ع۔ ن۔ ۱۔ ۱۔ مذ) (۱) آڑ صفت) سوچنے، فکر کرنے کے قابل۔ قابل خوز توجہ کا مستحق۔

غ-ی

غیباب - (ربا - یاب) (ع-ا-1-م) پوشیدہ - اوجھل - مخفی - غیب کی جمع -
 غیبیاش - (ربا - یاش) (ع-ص) فریاد سننے والا - فریاد کو پہنچنے والا -
 غیب - (ع-ا-1-م) غیر موجود - غائب - پوشیدہ - اوجھل - جمع: غیوب - غیباب -
 غیب دان - (ع-ف-ن-ص) پوشیدہ حال جاننے والا - غیب کی خبر رکھنے والا -
 غیب دانی - (ع-ف-ن-1-م) پوشیدہ حال جاننا -
 غیب سے دینا - (ا- محاورہ) جہاں سے کوئی خیال نہ ہو وہاں سے چیز
 مل جانا - خدا کی دین -
 غیب (علم) غلبہ ہونا - چھپ جانا - گم ہونا - (ق-ک) -
 غیب کی خبر - (ا-م) آئندہ واقعات کا علم -
 غیبانی - (ن-ب-ی) (ا-م) بے شرم اور بدچلن عورت (۲) -
 حرام زادہ -
 غیبت - (خ-ب-ت) (ع-ا-م) غیر موجودگی - غیر حاضری - پس پشت -
 غیبت صغریٰ - (ع-ا-1-م) اہل تشیع کے نزدیک امام وقت کا غائب
 ہونا - مگر امام کے نائبوں کا ظاہر ہونا -
 غیبت کبریٰ - (ع-ا-1-م) اہل تشیع کے نزدیک امام وقت اور
 اس کے نائبوں کا غائب ہونا -
 غیبت - (ج-ب-ت) (ع-ا-1-م) (۱) بدگوئی (۲) کسی کے بیٹھ پیچھے برا بھلا
 (۳) بدی -
 غیبت کرنا - (ا- محاورہ) (۱) بدی کرنا - بدگوئی سے کام لینا (۲) پیٹھ
 پیچھے برا بھلا -
 غیبتی - نسبت کرنے والا - (ق-ک) -
 غیبی - (ن-ب-ی) (ا-م) (ع-ا-ص) (۱) غائب - غیر حاضر (۲) عالم غیب سے متعلق دست
 غیر - (ع-ص) (۱) اجنبی - علیحدہ - دوسرا - وقیب - دشمن (۲) بیگناہ -
 سوا - مختلف (۳) حرف نفی جیسے غیر آباد (۴) درگوں - خراب - ناؤک -
 غیر آباد - (ع-ف-ن-ص) دران - اجازت - بخر -
 غیر آئینی - (ع-ف-ن-ص) ملک کے بنیادی قانون کے خلاف -
 غیر اختیاری - (ع-ف-ن-ص) مجبوری کی حالت - بے اختیاری -
 غیر از - (حرف استثناء) ماسوا - علاوہ ازیں - بجز اس کے -
 غیر تسلی بخش - (ا-تاج فعل) جس سے تسلی نہ ہو - خراب -
 غیر مجلس - (ع-ا-1-ص) کسی دوسری قسم یا نوع کا -
 غیر حاضر - (ع-ص) غائب - اوجھل -
 غیر حالت - (ع-ا-1-م) جان کنی کی حالت - دیگر گون حالت -
 غیر ذمہ دار - (ع-ف-ن-ص) لاپرواہی - فرض ناشناس - جس کو ذمہ داری
 کا احساس نہ ہو -
 غیر راجح - (ع-ف-ن-ص) بوجہ راجح نہ ہو -
 غیر رسمی - غیر معمولی -
 غیر سائن - (تحریر) - جو ایک جگہ نہ رہے -

غیر سال - (ع-ف-ا-1-م) سال گزشتہ - گزرا ہوا سال (ق) -
 غیر سمجھنا - (ا- محاورہ) اجنبی سمجھنا - اپنا دوست یا عزیز نہ سمجھنا (۱) غلط سمجھنا -
 (۲) توجہ نہ کرنا -
 غیر شافی - (ع-ص) تسکین نہ دینے والا - ناکافی جس سے شفا نہ ہو -
 غیر شخص - (ع-ص) اجنبی - بے گناہ نہ ہو -
 غیر مشرعی - (ع-ص) شریعت کے خلاف -
 غیر شفاف - (ع-ا-1-ص) دھندلا - تاریک -
 غیر صائب - (ع-ا-1-ص) نادرست -
 غیر ضروری - (ع-ص) جس کی ضرورت نہ ہو - بیکار -
 غیر علاقہ - (ع-ا-1-م) دوسرے کی ریاست - سرحدی قبائلی علاقہ -
 غیر فانی - (ع-ص) کبھی نہ مرنے والا - ہمیشہ رہنے والا -
 غیر کی آگ میں جلنا - (ا- محاورہ) دوسرے کی مصیبت اپنے سر لینا -
 غیر کی بدشگونئی کے واسطے اپنی ناک گھواتا - (امثال) مخالف کے
 تھوڑے سے نقصان کے واسطے اپنا زیادہ نقصان کر لینا -
 غیر متاثر - (ع-ا-1-ص) جس کا اثر نہ ہو - جس پر اثر نہ ہو -
 غیر مترقبہ - (ع-ا-1-ص) جس کا احاطہ نہ کیا جا سکے - جس کی توقع نہ ہو -
 بھلاک - ناگہانی -
 غیر متعین - غیر متعین - (ع-ص) لامحدود - لامتناہی -
 غیر متناہی - (ع-ص) جس کی انتہا نہ ہو -
 غیر متعہد - (ع-ا-1-ص) جس سے کسی قسم کا معاہدہ نہ ہوا ہو -
 غیر مجاز - (ع-ص) جس کو کسی کام کا اختیار نہ ہو - غیر مستحق -
 غیر محدود - (ع-ص) بے شمار - جس کی کوئی حد نہ ہو -
 غیر مزد - (ع-ف-ن-ص) وہ شخص جو قریبی رشتہ دار نہ ہو - بے گناہ - ناختم -
 غیر مروج - (ع-ا-1-م) جس کا رواج نہ ہو -
 غیر مژدومعہ - (ع-ص) کاشت نہ کی ہوئی زمین -
 غیر مساوی - (ع-ص) جو برابر نہ ہو -
 غیر مستعمل - (ع-ص) جو استعمال میں نہ آیا ہو - کورا - اچھوتا -
 غیر مشروط - (ع-ص) بغیر کسی شرط کے - یقینی -
 غیر معتبر - (ع-ص) ناقابل اعتبار - جھوٹا -
 غیر معروف - (ع-ا-1-م) جس کو عام طور پر نہ جانتے ہوں -
 غیر مفید - (ع-ا-1-م) جس کا فائدہ نہ ہو -
 غیر معمولی - (ع-ص) معمول کے خلاف - خلاف دستور -
 (۲) بہت زیادہ -
 غیر مقبوضہ - (ع-ص) جس پر کسی کا قبضہ نہ ہو - لاوارث -
 غیر مکمل - (ا-تاج فعل) ادھورا - ناقص -
 غیر محفوظ - (ع-ص) وہ حرف جو لکھنے میں آئے مگر بولنے میں نہ آئے -
 جیسے بالکل میں الف -
 غیر ملکی - (ع-ص) پر دیسی - دوسرے ملک میں - اجنبی -
 غیر ممکن - (ع-ص) دشوار - ناممکن - محال -
 غیر مناسب - (ا-تاج فعل) بے جا - نامناسب -

غیر منقولہ۔ (ع۔ صف) قائم۔ غیر متحرک (۲) وہ جاننا جو ایک جگہ سے
 دوسری جگہ نہ لے جائی جاسکے۔
 غیر منکوحہ۔ (ع۔ ف۔ مٹ) بے نکاحی گھر میں ڈالی ہوئی۔
 غیر موروثی۔ (ع۔ صف) وہ جو درت میں نہ آئی ہو۔
 غیر مؤثر۔ (ف۔ تابع فعل) جس کا اصل موصوع سے کوئی تعلق نہ ہو۔ خارج
 از بحث (۲) جس کا اثر نہ ہو۔
 غیر نافذ۔ (ع۔ صف) جو جاری نہ ہو۔
 غیر واجب۔ غیر واجبی۔ (ع۔ صف) قانون کے خلاف۔ غلط۔ بے جا۔
 نامناسب۔

غیرت سے کٹ جانا۔ (ا۔ محاورہ) سخت شرمندہ ہونا۔
 غیرت کا تقاضا۔ (ا۔ مذ) کسی بات کو سوچ کر دل میں ندامت ہونا۔
 غیرت کا مارا۔ (ا۔ محاورہ) شرم لیا خطا کا پابند۔
 غیرت کی جگہ ہے۔ (ا۔ محاورہ) نام ہونا چاہیے۔ شرم کرنا چاہیے۔
 غیرت مند۔ (ع۔ ف۔ صف) غیرت والا۔ باحیا۔
 غیرتت۔ (غ۔ ری۔ ات) (ا۔ مذ) (ا۔ مٹ) اجنبیت۔ بے گانگی۔
 غیرت برتنا۔ (ا۔ محاورہ) بیگانگی برتنا۔ غیر سمجھنا۔
 غیض۔ (ع۔ ا۔ مذ) ناقص بچہ جو حمل سے ساقط ہو جائے۔ بہت ہی تھوڑا۔
 (۲) پانی کا کم ہوجانا۔ ناقص کرنا۔ مجازاً تھوڑی بخشش۔
 غیظ۔ (ع۔ ا۔ مذ) سخت غصہ۔ غصہ کی تیزی۔
 غیظ و غضب۔ سخت غصہ۔
 غین۔ (ا۔ مذ) (ا۔ مٹ) ایک بے معنی آواز۔
 غیس پس۔ (ا۔ مٹ) شکایت کی آواز۔ جھگڑا۔ تکرار۔
 غیس غیس۔ (ا۔ مٹ) امت ساجت۔ عاجزی۔
 غین۔ (ع۔ ا۔ مذ) (۱) حرف 'غ' کا تلفظ (۲) گھرا ہوا ابر (۳) پیاس۔
 (۴) تاریکی (۵) نشہ میں چوڑ۔
 غین ہونا۔ (ا۔ محاورہ) نشہ میں غرق ہونا۔
 غینور۔ (غ۔ ی۔ ژ) (ع۔ صف) (۱) بہت غیرت کرنے والا (۲) خدا کا ایک
 صفاتی نام۔

غیرت۔ (غ۔ ری۔ ات) (ا۔ مٹ) حجت۔ لحاظ۔ شرم۔ حیا (۲) حسد۔
 غیرت (آنا) کھانا۔ (ا۔ محاورہ) غیرت ہونا۔ شرم کرنا۔
 غیرت اڑا دینا۔ بے حیا ہوجانا۔
 غیرت بخش۔ (ع۔ ف۔ صف) جسے دیکھ کر شرم آئے۔
 غیرت چمن۔ غیرت گلزار۔ جس پر باغ کو رشک آئے۔ یعنی محبوب۔
 غیرت چھو نہ جانا۔ (ا۔ محاورہ) بے حیا ہونا۔ بالکل شرم نہ ہونا۔
 غیرت سوگر۔ سوگر کو شرم دینے والا۔ نہایت حسین۔
 غیرت ماہ۔ جاننا کو شرم دینے والا۔ مجازاً معشوق۔
 غیرت دار۔ غیرت مند۔ (ع۔ صف) خود دار حیا دار۔ باحیثیت۔
 غیرت رکھنا۔ (ا۔ محاورہ) حیا رکھنا۔ باحیا ہونا۔

فارمولہ (Formula) (فار۔ مؤ۔ لا) (انگ۔ ۱-۱) [مذ] مقررہ
 قاعدہ و گز۔ کلیہ۔
 فارمیسی (Pharmacy) (فار۔ سے۔ تھی) (انگ۔ ۱-۱) [مذ]
 (۱) دوا سازی۔ دوا آمیزی (۲) دوا خانہ۔
 فارمیڈیا۔ (انگ۔ ۱-۱) [مذ] بلاشبہ کی تیلی سی تہ جو کڑھ کی چیزوں پر
 کیمیائی اثرات سے بچانے کے لیے چڑھائی جاتی ہے۔
 فارن آفس (Foreign Office) (فار۔ برن۔ آ۔ فرن) (انگ)
 ۱- [مذ] غیر ملکوں سے معاملات کرنے کا محکمہ
 فارن ہائٹ (Fahrenheit) (فار۔ برن۔ ہا۔ ایٹ) (انگ۔ [مذ]
 جرمین تھرما میٹر جس میں نقطہ انجماد ۳۲ ڈگری اور نقطہ جوش
 ۲۱۲ ڈگری ہوتا ہے۔
 فارورڈ۔ (Forward) (فار۔ ورڈ) (انگ۔ صف) آگے۔
 فارورڈ کرنا۔ آگے چلتا کرنا۔ بھیجنا۔ ارسال کرنا
 فاروق۔ (فار۔ روق) (ع۔ صف) (۱) فرق کرنے والا۔ حق و باطل
 میں فرق کرنے والا (۲) حضرت عمرؓ کا لقب (۳) ایک تریاق (۴)
 ایک تیزاب جس سے گھرا کھوٹا پر کھتے ہیں۔
 فاروقی۔ (فار۔ روقی) (ع۔ صف) حضرت فاروق سے منسوب۔
 حضرت عمرؓ کی اولاد۔
 فاسٹ (Fast) (انگ۔ صف) زیادہ تیز۔
 فاسیح (فا۔ سیح) (ع۔ صف) فسح کرنے والا۔ توڑنے والا۔
 فاسد۔ (فا۔ سید) (ع۔ صف) (۱) تباہ۔ برباد۔ بد۔ شر۔ فساد۔
 جھگڑالو۔ (۲) خراب۔ ناقص۔ بگڑا ہوا۔
 فاسفورس (Phosphorous) (فاس۔ فورس) (انگ۔ ۱-۱) [مذ]
 ایک تلب ناک کی یاد دہی مادہ جو مرکب حالت میں پایا جاتا ہے۔
 فاسفیٹ۔ (Phosphate) (فاس۔ فیٹ) (انگ۔ ۱-۱) [مذ]
 فاسفوری نمک۔
 فاسق (فا۔ سق) (ع۔ صف) (۱) گنہگار۔ بدکار۔ (۲) دورخ گو۔
 جھوٹا۔
 فاشن۔ (ع۔ صف) ظاہر۔ کھلا۔ آشکار۔ مزخ۔
 فاش غلطی کرنا۔ (۱) محاذہ۔ محل غلطی کرنا۔ ایسی بیماری غلطی کرنا
 جسے سب جانتے ہوں۔
 فاش ہونا۔ (مض۔ مرکب) ظاہر ہونا۔ طشت ازبام ہونا۔
 فاشنزم۔ (Fascism) (فا۔ شنزم) (انگ۔ ۱-۱) [مذ] فسطائیت
 سرمایہ داروں کی جارحانہ آمریت کا جمہوریت دشمن نظریہ۔
 فاشسٹ۔ (Fascist) (فا۔ شسٹ) (انگ۔ صف) فسطائی۔
 فاشنزم کا پیرو۔
 فاشی۔ (اُ۔ صف) فسطائی۔ فاشنزم سے متعلق۔ آمرانہ۔ جارحانہ۔
 فاضل۔ (فا۔ صل) (ع۔ صف) جملہ کرنے والا۔ فرق کینے والا۔
 فاضل آب۔ (ع۔ ف۔ ت۔ [مذ] دو دریاؤں کے درمیان کا مرتفع قطعہ زمین۔
 فاضلہ۔ (فا۔ صل۔ لہ) (ع۔ ۱-۱) [مذ] دوری۔ مسافت۔ عرصہ۔ میدان

فاضل۔ (فا۔ صل) (ع۔ صف) (۱) زیادہ۔ نکتہ ہوا۔ بڑھا ہوا۔ عالم
 دانہ۔ صاحب علم و فضل۔ جمع۔ فقط۔
 فاضل اجل (ع۔ صف) بہت بڑا فاضل۔ جید عالم۔
 فاضل بائی۔ بچا ہوا روپیہ۔
 فاضل بائی نکالنا۔ (۱) محاذہ، وصول شدہ رقم حساب میں جمع کر کے
 کسی پیشی یا لینا دینا نکالنا۔
 فاضل ہونا۔ (مض۔ مرکب) (۱) عالم ہونا۔ صاحب علم و فضل ہونا (۲)
 کسی شے کا زیادہ ہونا۔
 فاضلات۔ (ف۔ جن۔ لات) (ف۔ ۱-۱) [مذ] (۱) فاضل رقم (۲) بائی جو
 سیلاب کی وجہ سے نہر سے باہر نکلے۔
 فاضلہ۔ (ع۔ صف) (مض) صاحب علم عورت۔
 فاطمہ۔ (فا۔ ط۔ مہ) (ع۔ ۱-۱) [مذ] (۱) وہ حرکت جس نے دو ہی برس
 میں نیچے کا دودھ چھڑ دیا ہو نیچے کو دودھ نہ لانے والی (۲) رسول
 مقبول صلعم کی صاحبزادی فاطمہ الزہراء۔
 فاطمی۔ (فا۔ طی) (ع۔ صف) حضرت فاطمہ کی نسل کا (۲) مہری
 فرمان رواؤں کا خاندان جنہوں نے ۹-۱۱۱۷ء تک حکومت کی۔
 فاعل ونا اولی الایضار۔ (ع۔ آیت قرآنی) اسے سمجھ والو عبرت
 حاصل کرو۔
 فاعل۔ (فا۔ عل) (ع۔ صف) (۱) کام کرنے والا۔ (۲) رکنیہ اعظام
 کرنے والا۔
 فاعل حیثی (ع۔ اند) خدا سے تعلق۔
 فاعل مختار۔ (ع۔ ۱-۱) [مذ] وہ کام کرنے والا جس کو کامل اختیار حاصل ہو۔
 فاعل و مفعول۔ وہ جو کام کرے اور جس کے ساتھ کیا جائے (۱) اعظام
 کرنے والا اور جس کے ساتھ اعظام کیا جائے۔
 فاعلی۔ (فا۔ ی) (ع۔ صف) فاعل سے منسوب۔
 فاعلیت۔ (ف۔ ۱-۱) [مذ] فاعل ہونا۔
 فافہم۔ (فہف۔ ہم) (ع) پس خور کرو اور سمجھو۔
 فاق۔ (ع۔ ۱-۱) [مذ] تیر کا پچھلا حصہ۔ سو فار۔
 فاقہ۔ (فا۔ قہ) (ع۔ صف) کھودینے والا۔
 فاقہ البصر۔ (ع۔ صف) اندھا۔ تابیٹا۔
 فاقہ۔ (فا۔ قہ) (ع۔ ۱-۱) [مذ] کھانا کھانا۔ جھوکا رہنا۔
 فاقہ زدہ۔ جھوکا مارا۔ جھوکا۔ کنگال۔
 فاقہ سے ہونا۔ (مض۔ مرکب) کچھ نہ کھانا۔ جھوکا ہونا۔
 فاقہ شکنجی۔ (ع۔ ف۔ مت) فاقہ کے بعد کھانا کھانا۔
 فاقہ کا مارا۔ (۱) محاذہ۔ عزیز ہے۔ جھوکا ستایا ہوا۔
 فاقہ کش۔ جھوکا رہنے والا۔ متاع۔
 فاقہ کوزنا۔ (۱) محاذہ۔ فاقہ ہونا۔ جھوکا رہنا۔
 فاقہ مست۔ (ع۔ ف۔ ۱-۱) [مذ] (۱) نکلنے میں چھک کیلئے والا۔ (۲) مگی میں
 مگن رہنے والا۔
 فاقہ مستی۔ (ع۔ ف۔ ۱-۱) [مذ] (۱) مستی میں خوشی۔ منگی میں رنگ دیاں

فائقوں پر فائقے گذرنا۔ (۱۔ محاورہ) متواتر جھوکے رہنا۔ لگاتار کچھ دکھانا
 فاقوں کا مارا۔ (۱۔ محاورہ) وہ جو بھوک سے ڈبلا ہو گیا ہو۔
 فاقہ ہونا (۱۔ محاورہ) فاقہ گذرنا۔ بے کھائے رہنا۔ بھوکا رہنا۔
 فاکہہ (ع۔ ۱۔ مذ) سپورہ۔ پھل۔ ہرا پھیل۔
 فال (ع۔ ۱۔ صفت) تشنگون۔ غیب کی بات پیشین گوئی۔
 فال دیکھنا۔ فال کھولنا۔ فال لینا۔ (۱۔ محاورہ) کسی کتاب یا باتے وغیرہ
 کے ذریعے نیک اور بد شگون معلوم کرنا۔ غیب کی بات دریافت کرنا۔
 فال کی کوڑیاں ملا کوئیں حلال ہیں۔ (۱۔ نقل) اشتہق کی اجبت پر پیر کا
 اور شتی کوئی جائز ہے۔
 فال گو (ع۔ ۱۔ مذ) فال دیکھنے اور بتانے والا۔
 فال نامہ (ع۔ ۱۔ مذ) وہ کتاب جس سے فال نکالی جائے۔
 فال نکلنا۔ شگون ہونا۔ غیب کی بات معلوم کرنا۔
 فال تیک (ع۔ ۱۔ صفت) اچھا شگون
 فال تو (فال) تو (۱۔ صفت) (۱۔ ضرورت سے زائد۔ بیکار۔ فاضل فنون)۔
 (۲) پھاڑی لوگ۔ قلی۔ مزدور۔
 فالج (ع۔ ۱۔ مذ) بدن کا ڈھیلا یا سن پڑ جانا
 فالج زدہ (ع۔ ۱۔ صفت) جسے فالج ہوا ہو۔
 فالج کھڑنا، ہونا۔ فالج کا مرض ہونا۔
 فالسہ۔ (فال۔ سنہ) (ف۔ ۱۔ مذ) جھاڑی کے میرے کے برابر ایک اوداگٹ
 منٹھا میوہ۔
 فالسی۔ (فال۔ سن۔ یعنی) (ف۔ صفت) اوداگ۔ سیاسی نال سمرخ۔
 فالوہ (فالو۔ ذہ) (ف۔ ۱۔ مذ) پکا ہوا تارے جسے چلنے میں جھان کوئیاں
 سی بنا لیتے ہیں اور دودھ، برف و شکر کے ساتھ ملا کر کھاتے
 ہیں۔
 فالوہ کھاتے وقت دانٹ ٹوٹیں تو بلا سے۔ (۱۔ نقل) بھلائی
 میں بھی برائی ہوتی ہو کرے اگر آسان کام میں بھی کھرنے تو بلا سے۔
 فالیزہ۔ (فالیزہ۔ ف) (مٹ) خر بوڑے کا کھیت۔ کھیرا۔ کلوٹی۔ تر بوڑ
 کا کھیت۔
 فام۔ (ف۔ صفت) رنگ۔ شبید۔ مانند۔ مرکبات میں مستعمل ہے جیسے
 سیاہ فام۔ سفید فام۔
 فالوس۔ (فالوس۔ مذ) ایک قسم کی بڑی قندیل۔ ایک قسم کا
 شمع دان جس پر شہسے کی شکل کا باریک کپڑا یا کاغذ چڑھا ہوتا ہے۔
 فالوس خیال۔ فالوس خیالی۔ فالوس کردار۔ (ف۔ ۱۔ مذ) ایک
 قسم کا کاغذی فالوس۔ جس پر اچھی۔ گھوڑوں وغیرہ کا پیکر بنا دیتے
 ہیں جو گھمانے یا ہوا کے زور سے گردش کرتا ہے۔
 فانہ۔ (فانہ۔ ف) (ف۔ ۱۔ مذ) پیمانہ۔ چھٹی کلومیٹر جس کے ذریعہ دوسری
 کلومیٹر کی درز نھاتے ہیں۔
 فانی۔ (فانی۔ ف) (ع۔ صفت) فنا ہونے والا۔ مٹنے والا۔ (۲) بہت بوڑھا۔
 فاندہ۔ (فانہ۔ ذہ) (ع۔ ۱۔ مذ) (۱) نفع، سود (۲) نتیجہ، حاصل (۳)
 محض، خوبی (۴) پیداوار، آمدنی۔ (۵) فرض، مطلب، واسطہ (۶)

کارآمد۔ غنید (۶) افادہ۔ آرام (۸) بہترسی۔ بھلائی۔
 فائدہ اٹھانا۔ نفع حاصل کرنا۔ نفع حاصل کرنا۔
 فائدہ دینا۔ (۱۔ محاورہ) نفع پہنچانا۔
 فائدہ مند، فائدہ بخش۔ فائدہ رساں۔ غنید۔ سود مند۔ کارگر بوڑھا۔
 فائدہ ہونا۔ (۱۔ محاورہ) نفع ہونا۔ (۲) مفید ہونا۔ (۳) حاصل ہونا۔ مرض
 میں اعجاز ہونا۔
 فائر۔ (Fire) (فا۔ ۱۔ مذ) آگ۔
 فائر انجن۔ (Fire Engine) (انگ۔ ۱۔ مذ) وہ انجن جس سے
 آگ بجھائیں۔
 فائر بریگیڈ۔ (Fire Brigade) (انگ۔ ۱۔ مذ) جمائے والی جماعت اور مشین۔
 فائر پروف۔ (Fire Proof) (انگ۔ ۱۔ مذ) وہ شے جس
 سے آگ کا اثر نہ ہو۔
 فائر مین۔ (Fireman) (انگ۔ ۱۔ مذ) انجن میں کڑھو رکھنے والا۔
 فائر۔ (فا۔ ۱۔ مذ) (ع۔ صفت) (۱) سینچنے والا۔ (۲) تھپانے والا۔ کامیاب۔
 فائر المرام۔ مراد پانے والا۔ کامیاب۔ ہامراد۔
 فالج۔ (فال۔ ۱۔ مذ) (ع۔ صفت) فوقیت رکھنے والا۔ بڑھا ہوا۔ برتر۔ ممتاز۔ اعلیٰ معیار۔
 فائل۔ (File) (فا۔ ۱۔ مذ) (۱) مسجل۔ کاغذات کا
 مجموعہ جو سلسلہ وار اور تاریخ وار رکھا جائے۔ (۲) سبک۔ لای۔ قطار۔
 منتھی۔ مٹھا۔
 فائل بک۔ (Filebook) (انگ۔ ۱۔ مذ) وہ کتاب جس میں کاغذ
 منتھی کر کے رکھے جائیں۔
 فائل کھرنا۔ (مصن۔ مرکب) منسک کرنا۔ منتھی کرنا۔ مسل میں شامل کرنا
 داخل دفتر کرنا۔ مقدمہ دائر کرنا
 فائن۔ (Fine) (فائی۔ ان) (انگ۔ ۱۔ مذ) (۱) جرمانہ۔ ڈنڈہ۔ تادان۔
 (۲) نیکس۔ عمدہ۔ خوبصورت۔
 فائن آرٹ۔ (انگ۔ ۱۔ مذ) فنون لطیفہ۔
 فائنری۔ (Finery) (فائی۔ سن۔ یعنی) (انگ۔ ۱۔ مذ) (مٹ)
 لوہا پھلانے کی میتھی۔
 فائنل۔ (Final) (فا۔ ۱۔ مذ) (انگ۔ ۱۔ مذ) آخری۔ قطعی
 (۲) ٹورنامنٹ میں مقابلے کا آخری کھیل۔
 فاول۔ (Foul) (فال۔ ان) (انگ۔ ۱۔ مذ) کھیل کے قواعد کی
 خلاف ورزی۔
 فائوٹین پن۔ (Fountain Pen) (فا۔ ان۔ پن۔ پن۔ ان) (انگ)
 (۱) مذ) خود کار قلم جس میں روشنائی کا ذخیرہ موجود رہے۔
 فاونڈری۔ (Foundry) (فا۔ انڈری۔ سی) (انگ۔ ۱۔ مذ) کارخانہ
 جس میں دھاتوں کو گلا کر اشیاء ڈھالی جاتی ہیں۔

ف ب

فہر۔ (ف۔ پ۔ ہا) (ع۔ متعلق فعل) بہت خوب۔ بہتر۔ مراد حاصل۔

ف۔ت

قبائلی (قبائل) (ع۔ ۱۔ مذ) (۱) جوان آدمی۔ (۲) دلیر۔ شجاع آدمی۔
قاج (قاج) (ع۔ ۱۔ صفت) کھولنے والا۔ حکم کرنے والا۔ خدا کا ایک۔
صفات نام۔

قتال (قتال) (ع۔ ۱۔ صفت) فتنہ انگیز۔ آفت خیز۔ اکثر محبوب کی۔
انگ کی صفت میں آتا ہے۔

قتاوی (قتاوی) (ع۔ ۱۔ مذ) فتنے کی جمع۔ شریعت اسلامیہ کے حکم۔ مفتی دین کے فیصلے۔

فتح (ع۔ ۱۔ مثن) جیت۔ نظیر۔ کامیابی۔

فتح الباب (ع۔ ۱۔ مثن) ابتدا۔ آغاز (۲) موسم آنے کا آغاز۔

فتح باب (ع۔ ۱۔ مثن) آسویگی۔ کشت وگل۔ (نظنی معنی) دروازے کا کھلنا۔

فتح بانا (مضمرک) جیتنا۔ کامیاب ہونا۔

فتح بوج (۱) عورتوں کے بال گوندھنے کا طریقہ۔ عورتوں کی چوٹی کے گوندھے ہوئے بالوں کے ایک پیچ کا نام (۲) یکڑی باندھنے کا ایک خاص طریقہ۔ (۳) ایک قسم کا کھتہ۔

فتح کاؤنکا (نقارہ) پنجا۔ (۱۔ محاورہ) جیتنے کی خوشی۔

فتح کھڑھ (ع۔ ۱۔ مذ) مینار یا عمارت جو کسی کی یادگار میں بنائی جائے۔

فتح مند (ع۔ ۱۔ صفت) جیتنے والا نظیر باب۔ غالب۔ کامیاب۔

فتح مندری (ع۔ ۱۔ مثن) جیت۔ کامیابی۔

فتح نامہ (ع۔ ۱۔ مذ) وہ تحریر جو کسی فتح کی خوشی اور اس کے حالات میں لکھی جائے۔

فتح نظیر (ع۔ ۱۔ مثن) فتح۔ کامیابی۔

فتح (ع۔ ۱۔ مثن) زبرد۔ جو حروف پر لگائی جاتی ہے تاکہ تلفظ صحیح ہو سکے۔ حرکت۔ نصب۔

فتح باب (ع۔ ۱۔ مثن) کامیاب۔ جیتنے والا۔

فتح بابی (ع۔ ۱۔ مثن) جیت۔ فتح۔ نظیر۔

فتراک (فتراک) (ع۔ ۱۔ مذ) شکار بند۔ شکاریوں کا تھیلا۔

فترت (ع۔ ۱۔ مثن) غشی ضعف (۲) دو بیخبروں کے درمیان کا دھتہ۔ خلا۔

فتیق (ع۔ ۱۔ مذ) ایک مرض جس میں فوطے بڑھ جاتے ہیں (۲) کشادگی۔

فتین (فتین) (ع۔ ۱۔ مذ) فتنے کی جمع۔ فسادات۔

فتنہ (فتنہ) (ع۔ ۱۔ مذ) جھگڑا۔ فساد۔ ہنگامہ۔ بوج۔ بغاوت۔ سرکشی۔ (۲) آزمائش۔ گمراہی۔ مال۔ اولاد۔ (۳) ایک عطر کا نام (۴) دریا کی (۵) نہایت خراب۔ شوخ۔ آفت کا پیکر۔

فتنہ اٹھانا (۱۔ محاورہ) فساد برپا کرنا۔ جھگڑا کھڑا کرنا شرارت کرنا۔

فتنہ اندازہ (۱۔ محاورہ) فتنہ برپا کرنا۔ جھگڑا کھڑا کرنا۔

فتنہ سب (سب) (ع۔ ۱۔ مذ) فتنہ برپا کرنا۔ جھگڑا کھڑا کرنا۔

فتنہ سب (سب) (ع۔ ۱۔ مذ) فتنہ برپا کرنا۔ جھگڑا کھڑا کرنا۔

فتنہ پیدا کرنا (۱۔ محاورہ) دوبار فساد کھڑا کرنا۔ از سر نو فساد کرنا۔

فتنہ جاگنا (۱۔ محاورہ) فتنہ جگانا۔ جھگڑا کھڑا کرنا۔ فساد اٹھانا۔

فتنہ جمال۔ **فتنہ عالم**۔ (ع۔ ۱۔ صفت) دنیا میں حشر برپا کرنے والا۔ (۲) معشوق۔

فتنہ حقیقت (خواب سیدہ)۔ (۱۔ محاورہ) سویا ہوا فساد۔ دبا ہوا جھگڑا۔

فتنہ خیز۔ (ع۔ ۱۔ صفت) فتنہ برپا کرنے والا۔

فتنہ نرا۔ **فتنہ سچ**۔ **فتنہ سگال**۔ **فتنہ گر**۔ آفت اٹھانے والا۔

فتنہ (ع۔ ۱۔ مثن) جیت۔ نظیر۔ کامیابی۔

فتنہ گرمی۔ (ع۔ ۱۔ مثن) فساد۔ (۲) معشوق۔

فتنی۔ (فتنی) (۱۔ مثن) فتنہ۔ (۲) چالاک۔ عیار عورت۔

فتور (فتور) (ع۔ ۱۔ مذ) (۱) تھمت۔ بہتان۔ (۲) فساد۔ خرابی۔

فتوت۔ (فتوت) (ع۔ ۱۔ مثن) شہادت۔ موت۔ سناوت۔

فتوح۔ (فتوح) (ع۔ ۱۔ مذ) فتح کی جمع۔ کامیابیاں۔ فتوحات۔

فتوحات۔ (فتوحات) (ع۔ ۱۔ مذ) فتح کی جمع اور فتح کی جمع الٹھ۔ (۲) کامیابیاں۔ فتوحات۔

فتوحی۔ (فتوحی) (ع۔ ۱۔ مثن) صدی۔ واسکٹ۔ بغیر۔

فتور۔ (فتور) (ع۔ ۱۔ مذ) (۱) خرابی۔ نقص۔ ضعف (۲) فتنہ۔ فساد۔

فتور آنا (۱۔ محاورہ) خرابی پیدا ہونا۔ نقص نکالنا۔ رخسہ پڑنا۔

فتور اٹھانا (۱۔ محاورہ) فساد مچانا۔ جھگڑا کرنا۔ فساد برپا کرنا۔

فتور عقل۔ (ع۔ ۱۔ مثن) عقل کی خرابی۔

فتوری۔ (فتوری) (ع۔ ۱۔ مثن) (۱) توڑ۔ پٹی۔ (۲) توڑ۔ پٹی۔ (۳) توڑ۔ پٹی۔

فتوری۔ (فتوری) (ع۔ ۱۔ مثن) (۱) توڑ۔ پٹی۔ (۲) توڑ۔ پٹی۔ (۳) توڑ۔ پٹی۔

فتوری۔ (فتوری) (ع۔ ۱۔ مثن) (۱) توڑ۔ پٹی۔ (۲) توڑ۔ پٹی۔ (۳) توڑ۔ پٹی۔

فتوری۔ (فتوری) (ع۔ ۱۔ مثن) (۱) توڑ۔ پٹی۔ (۲) توڑ۔ پٹی۔ (۳) توڑ۔ پٹی۔

فتوری۔ (فتوری) (ع۔ ۱۔ مثن) (۱) توڑ۔ پٹی۔ (۲) توڑ۔ پٹی۔ (۳) توڑ۔ پٹی۔

فتوری۔ (فتوری) (ع۔ ۱۔ مثن) (۱) توڑ۔ پٹی۔ (۲) توڑ۔ پٹی۔ (۳) توڑ۔ پٹی۔

فتوری۔ (فتوری) (ع۔ ۱۔ مثن) (۱) توڑ۔ پٹی۔ (۲) توڑ۔ پٹی۔ (۳) توڑ۔ پٹی۔

فتوری۔ (فتوری) (ع۔ ۱۔ مثن) (۱) توڑ۔ پٹی۔ (۲) توڑ۔ پٹی۔ (۳) توڑ۔ پٹی۔

فتوری۔ (فتوری) (ع۔ ۱۔ مثن) (۱) توڑ۔ پٹی۔ (۲) توڑ۔ پٹی۔ (۳) توڑ۔ پٹی۔

فتوری۔ (فتوری) (ع۔ ۱۔ مثن) (۱) توڑ۔ پٹی۔ (۲) توڑ۔ پٹی۔ (۳) توڑ۔ پٹی۔

فتوری۔ (فتوری) (ع۔ ۱۔ مثن) (۱) توڑ۔ پٹی۔ (۲) توڑ۔ پٹی۔ (۳) توڑ۔ پٹی۔

فتوری۔ (فتوری) (ع۔ ۱۔ مثن) (۱) توڑ۔ پٹی۔ (۲) توڑ۔ پٹی۔ (۳) توڑ۔ پٹی۔

فتوری۔ (فتوری) (ع۔ ۱۔ مثن) (۱) توڑ۔ پٹی۔ (۲) توڑ۔ پٹی۔ (۳) توڑ۔ پٹی۔

فتوری۔ (فتوری) (ع۔ ۱۔ مثن) (۱) توڑ۔ پٹی۔ (۲) توڑ۔ پٹی۔ (۳) توڑ۔ پٹی۔

فتوری۔ (فتوری) (ع۔ ۱۔ مثن) (۱) توڑ۔ پٹی۔ (۲) توڑ۔ پٹی۔ (۳) توڑ۔ پٹی۔

ف - ح

قتیلہ - (فت۔ تی۔ لہ) (ع۔ ا۔ مذ) موٹی تہی۔ بٹی ہوئی چیز۔ (۱) وہ تہی جو زخم میں رکھتے ہیں۔ (۲) تھوڑی سی تہی جس سے تیار یا اسباب زدہ کو دھونی دیتے ہیں (۳) ہندوئی یا توپ کا ٹوٹا۔

قتیلہ داغنا - (۱) محاورہ) ناش کھنا۔

قتیلہ دکھانا - (۱) محاورہ) ہندوئی یا توپ کی بارود کو قتیلے سے آگ لگانا۔

قتیلہ دینا - (۱) محاورہ) زخم میں تہی رکھنا۔

قتیلہ ناک میں دینا - (۱) محاورہ) (۱) تھوڑی سی تہی کی دھونی دینا۔ (۲) دق کھنا۔

قماش - (ع۔ حاش) (ع۔ صفت) (۱) شریہ۔ بد بطن (۲) گندہ۔
قماشنی - (ع۔ حاشنی) (ع۔ ا۔ مذ) (۱) شریہ۔ بد بطن۔ جنسی مسائل کو شتمل کرنا۔ بے حیائی۔
قش - (ع۔ ا۔ مذ) گال۔ بے پردہ بات۔ قابلِ شرم بات۔ جنسی بد کلامی۔ بے حیائی کی باتیں۔
قش بکھنا - (۱) محاورہ) گالیاں بکھنا۔ لہجہ بات کھنا۔

قفل - (ع۔ ا۔ مذ) (۱) آؤنٹ۔ ساٹھ (۲) جید عالم (۳) ایک ستارہ جو اوج و خموی۔ (ع۔ ا۔ مذ) (۱) معنی۔ مطلب۔ ڈھنگ انداز۔
قحوائے کلام - (ع۔ ا۔ مذ) بات کا مطلب۔ گفتگو کا انداز۔
قحول - (ع۔ ا۔ مذ) (ع۔ ا۔ مذ) (۱) جمع کی جمع۔ (۲) جیدہ علماء (۳) آؤنٹ۔ ساٹھ۔

ف - ٹ

فٹ - (Fit) (انگ۔ صفت) چسٹ۔ درست۔ ٹھیک۔

فٹ آنا - (۱) محاورہ) ٹھیک آنا۔ درست ہونا۔ موزوں ہونا۔

فٹ - (Foot) (انگ۔ ا۔ مذ) پاؤں۔ قدم۔ پیر۔ (۲) بارہ انچ کا پیمانہ۔ گز کا تیسرا حصہ۔

فٹ بال - (Foot Ball) پاؤں سے لڑھکائے کی گیند۔

فٹ نوٹ - (Foot Note) وہ شرح جو کتاب کے متن کے نیچے لکھی جائے۔

فٹسٹر - (Fitter) - (ف۔ ٹ) (انگ۔ ا۔ مذ) مستری۔ شینوں کے

گرنے سے مرمت کرنے یا درست کرنے والا۔

فیلن - (Phaeton) (ف۔ ٹ) (انگ۔ ا۔ مذ) ایک قسم کی چار پھیروں کی گھڑی۔

فٹنگ - (Fitting) (انگ۔ ا۔ مذ) درستگی۔ کسی چیز کو درست کرنا۔

ف - خ

فخر - (ع۔ ا۔ مذ) (۱) انداز۔ گھمنڈ۔ غرور۔ بزرگی۔ (۲) شیعنی۔ تمہی۔ (۳) سخاوت و شوکت۔

فخر اندیا - (ع۔ ا۔ مذ) (۱) اکتائیتہ، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم۔

فخر جاننا - (ع۔ ا۔ مذ) (۱) محاورہ) (۱) برائی اور بہتری کا باعث خیال کرنا۔

فخر خاندان - (ع۔ ا۔ مذ) وہ شخص جس کے باعث خاندان کو شرف اور بزرگی حاصل ہو۔

فخر کرنا - (ع۔ ا۔ مذ) (۱) اکتائیتہ، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم۔

فخر آواز - (ع۔ ا۔ مذ) (۱) فخر۔ (۲) فخر۔ (۳) فخر۔ (۴) فخر۔ (۵) فخر۔ (۶) فخر۔ (۷) فخر۔ (۸) فخر۔ (۹) فخر۔ (۱۰) فخر۔

ف - د

ف - ج

فجا - (ع۔ ا۔ مذ) اچانک بولنا۔ بیکاک ہونا۔

فجائی - (ع۔ صفت) بیکاک۔ ناگہاں۔ اچانک۔

فجائے - (ع۔ صفت) (ع۔ ا۔ مذ) ناگہان کی جمع۔ بدکار لوگ۔

فختر - (ع۔ ا۔ مذ) (ع۔ ا۔ مذ) (۱) صبح۔ سورج۔ (۲) نور کا ٹوٹا۔ (۳) فخر۔

فختر ہونا - (۱) صبح ہونا۔ (۲) نور کا ٹوٹنا۔ (۳) فخر ہونا۔

فختر ہونا - (۱) صبح ہونا۔ (۲) نور کا ٹوٹنا۔ (۳) فخر ہونا۔

فجور - (ع۔ ا۔ مذ) (ع۔ ا۔ مذ) (۱) گناہ۔ (۲) جرم۔ (۳) قصور۔ گناہ گاری۔

زنا۔ بدکاری۔

فدا - (ع۔ ا۔ مذ) (ع۔ ا۔ مذ) (۱) شہ۔ قربان۔ (۲) عاشر۔

فریقہ۔ مقتول۔

فدا کرنا - (۱) محاورہ) قربان کرنا۔ تصدق کرنا۔ وارنا۔ شہ کرنا۔

چھوڑنا۔

فدا ہلانا - (۱) محاورہ) قربان ہونا۔ تصدق۔ ہونا۔ (۲) عاشر ہونا۔

فریقہ ہونا۔

فداہ امتی - (ع۔ لکھ) (ع۔ لکھ) (۱) میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ پیغمبر خدا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے بعد کہتے ہیں۔

فدائی (ف۔ دا۔ ای) (ع۔ ا۔ مذ) (۱) جان نثار۔ عاشق۔ سرویسے والا۔ (۲) فرید اسماعیلیہ کے افراد کا ایک نام۔
فدک (ع۔ س۔ مذ) ایک گاؤں کا نام جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سرکاری باغ تھا جو آپ کے خلفاء کو منتقل ہو گیا۔
فدوی (ف۔ وی) (ع۔ ص) (۱) جان نثار۔ قربان ہونے والا۔ (۲) معروضہ پیش کرنے والا۔ تابع و مدد جمع۔ فدویان۔
فدیہ (ف۔ ی) (ع۔ مذ) (۱) نقد معاوضہ۔ (۲) قتل بہار (۳) مل یا روپیہ سے کفر قیدی رہا ہو۔
فدیوانہ (ف) فدیوی کی مانند۔

ف۔ ذ

فداک (ف۔ ذ۔ ک) (ع۔ ص) حساب کی اصطلاح میں وہ جمع جو تفصیل کے بعد دی جائے۔ میزبان۔

ف۔ ر

فر (ع۔ ا۔ مذ) (۱) شان۔ شوکت۔ زینت۔ آرائش۔ زیبائش۔ بھوک۔ (۲) رعب۔ داب۔ دیدہ۔ (مذ) عربی فرز اڑنے کی آواز۔ فر سے اڑنا۔ (۱) محاورہ) پھر سے اڑنا۔ جلدی سے بھولنے کی ایک آواز سے اڑنا۔
فر (Fur) (ف۔ ر) (ع۔ ا۔ مذ) پوسٹن۔ سمور۔ سنبھ۔ قائم۔
فراٹ (ف۔ ر) (ع۔ ا۔ مذ) (۱) میٹھا اور ٹھنڈا پانی۔ (۲) عراق کا ایک دریا۔
فرائٹا (ف۔ ر۔ ٹا) (ا۔ ر۔ مذ) کسی چیز کے اڑنے کی آواز (۲) ہوا کا سنا۔ (۳) جلد ملد پھنایا ہوا۔
فراٹے بھڑنا۔ فر اڑنے لینا۔ (۱) محاورہ) (۱) بہت تیز پھنایا ہوا (تیز بھاگنا۔ (۳) بھڑنے یا پھر سے کا ہوا میں لہرانا۔ (۴) بے ستمی اور ڈرنا۔
فراخ (ف۔ ر) (ع۔ ص) (۱) وسیع چوڑا۔ کشادہ۔ کھٹا ہوا۔ (۲) بلا۔ کلاں۔
فراخ آستین۔ (ف۔ ص)۔ سخی۔ فیاض۔ جو انور۔
فراخ ابوہ۔ (پشانی) (ع۔ ف۔ ص) کشادہ پیشانی۔
فراخ خوش۔ (ف۔ ص) بلند حوصلہ۔ عالی ہمت۔
فراخ چینی۔ (ف۔ ص) عالی ہمتی۔ بلند حوصلہ ہونا۔
فراخ حوصلہ۔ (ف۔ ع۔ ص) جسے حوصلہ والا۔ عالی ہمت۔
فراخ دوامین۔ (دوست)۔ (ف۔ ص) (۱) دولت مند۔ (۲) فیاض۔ بخشنے والا۔

فراخ دستی۔ (ف۔ س۔ مذ) (۱) فاضل۔ (۲) دولت مند۔
فراخ روہ۔ (ف۔ ص) فضول خرچ۔ فیاض (۲) چست۔ تیز۔
فراخ روی۔ (ف۔ ا۔ مذ)۔ فیاضی بہ نفع خرچی۔
فراخ کھانا۔ (مضمرک) چڑا کھانا کشادہ کھانا۔ ڈھیلہ کھانا۔
فراخ جوہر۔ (ف۔ ر۔ مذ)۔ (ف۔ ص)۔ لائق مناسب۔ سزاوار۔
فراخی۔ (ف۔ ر۔ جی) (ع۔ س۔ مذ) (۱) چوڑائی۔ (۲) خوش حالی۔ اسودگی (۳) گھڑے کا رنگ۔ چینی۔
فراخی نرنگ۔ (ف۔ ا۔ مذ) (ع۔ ص) روزی کی کشادگی۔
فراوی۔ (ف۔ س۔ دا) (ع۔ ص) فرد کی جمع۔ کیسے۔ تنہا۔ ایک ایک۔
فراڈ۔ (Fraud) (ف۔ ر) (ع۔ ا۔ مذ) (۱) دھوکا۔ فریب۔
فراڈ۔ (ف۔ ر) (ع۔ ص) بہت بھانگنے والا۔ چالاک۔ طرار۔ بھگڑا۔
فراہ۔ (ف۔ ر) (ع۔ ا۔ مذ) (۱) بھاگنا۔ بھاگنا۔ بھاگنا۔
فراہ ہونا۔ (مضمرک) (۱) بھاگ جانا۔ (۲) روپوش ہونا۔ غائب ہونا۔
فراہی۔ (ف۔ ر) (ع۔ ص) (۱) بھگڑا بھاگنا۔ روپوش۔
فرازی۔ (ف۔ ر) (ع۔ ا۔ مذ) (۱) بلندی۔ (۲) اونچائی۔ (۳) کشادہ۔ کھلا ہوا۔
فرازی۔ (ف۔ ر) (ع۔ ا۔ مذ) (۱) اونچائی۔ بلندی۔
فراست۔ (ف۔ ر) (ع۔ ا۔ مذ) (۱) اونچائی۔ تیز رفتاری۔ سمہ داری۔
قیافہ شناسی۔
فراست الیند۔ (ع۔ ا۔ مذ) (۱) دیکھنے پامسٹری۔
فراش۔ (ف۔ ر) (ع۔ ا۔ مذ) (۱) فرش بچانے والا (۲) وہ شخص جس کے اہتمام میں خیموں کا گاڑنا کھانا ہر۔ (۳) (ا۔ ر) ایک درخت جو صنوبر اور شمشاد سے مشابہ ہوتا ہے۔
فراش بین۔ (ع۔ ا۔ مذ) (۱) مٹر کی قسم ایک بھلی (نگ) (Frenchbean)
فراش خانہ۔ (ف۔ ا۔ مذ) (۱) وہ مکان جہاں ڈیرے جیسے اور فرش فروش کا سامان ہے۔
فراش۔ (ف۔ ر) (ع۔ ا۔ مذ) (۱) وہ فرش جس پر سوئیں۔ بسترا۔ (۲) مرکبات کے آخر میں مستعمل ہے جیسے صاحب فرش۔
فراشی۔ (ف۔ ر) (ع۔ ا۔ مذ) (۱) فرش کا کام۔ (۲) فرش کی بوی۔
فراشی پنکھا۔ (ع۔ ا۔ مذ) (۱) ایک قسم کا پنکھا جو مغل پر ہاتھ سے بلایا جاتا ہے۔ (۲) پھت کا پنکھا۔
فراشی سلام۔ (ع۔ ا۔ مذ) (۱) وہ سلام جو اس قدر جھک کر کیا جائے۔ کہ سر فرش سے لگ جائے۔
فراغ۔ (ع۔ ا۔ مذ) (۱) فرعون کی جمع۔
فراغ۔ (ف۔ ر) (ع۔ ا۔ مذ) (۱) جی۔ آرام۔ فرصت۔ مہلت نجات۔
فراغی۔ (۲) خوشی۔ کھرمیں (۳) خوش حالی (۴) افزائے بہتات (۵) دلچسپی۔ اطمینان۔
فراغ بابی۔ (ف۔ ع۔ ص) دیکھئے۔ فارغ البالی میں۔ اسودگی۔

فراہمی - (ف - را - ہ - ع - می) (ف - امت) (۱) اجتماع جمعیت اکٹھا کرنا یا جمع کرنا۔

فرائد - (ف - را - ہ - ع - ا) (ف - ا - ع) (۱) مفید فریضہ کی جمع، (۲) قیمتی پتھر۔ جوہرات (۳) اکائیاں (۴) بے شل۔ تہنایگانہ

فرائض - (ف - را - رض) (۱) (ع - ا - ہ - ا) (ف - ا - ع) (۱) مفید فریضہ کی جمع، (۲) وہ کام جن کا کرنا ضروری ہو۔ (۳) تقسیم میراث کا علم (۴) خدائی احکام۔

فرائض بیج گانہ - (ع - ف - ا) (۱) مذہب یا نچول وقت کی نمازیں۔ (۲) وہ بیج یا تین چھبیں اسلام نے فرض قرار دیا ہے۔ (۳) کلمہ شہادت۔ (۴) غانڈ (۳۱) روزہ (۴) زکوٰۃ (۵) حج۔

فرائض منصبی - (ع - ا - ہ - ا) (۱) مذہب کا کام جن کا کرنا کسی عہدے دار کے لئے ضروری ہو۔

فرائض ویت - (ف - ر - و - یت) (۱) (ف - امت) (۲) بہبودگی۔ افضل عمل۔ فریبہ۔ (ف - ر - ی) (۱) (ف - ص) (۲) موٹا تازہ۔ لمبے دم تیار جسم۔

فرب اندام - (ف - ص) (۱) موٹے تازے جسم والا۔

فربہ (ف - ر - ہ) (۱) (ف - امت) (۲) موٹائی۔ تیزی جسم کی تندی۔

فربہ چیرے و کمر آگاس چیرے و دیگر اسٹ۔ (۱) (ف - ص) (۲) موٹا پالا۔

چیز بے وزم دوسری چیز ہے۔ اس وقت ہوتے ہیں جب کوئی ادنی چیز کسی اعلیٰ چیز کی ہم شکل ہو۔

فروق - (ف - ر - ق) (۱) (ف - ص) (۲) بہت بڑھا۔ نہایت ضعیف۔ (۳) بے عقل۔ بد عاقل۔

فروج - (ع - ا - ہ - ا) (۱) (ف - امت) (۲) شگاف۔ چھید۔ سوراخ (۳) عورت کا اندام نہانی شرم گاہ۔ جمیع۔ فروج۔

فروج - (ا - ا - ہ - ا) (۱) (ف - امت) (۲) شگاف۔ چھید۔ سوراخ (۳) عورت کا اندام نہانی شرم گاہ۔ جمیع۔ فروج۔

فروج - (ا - ا - ہ - ا) (۱) (ف - امت) (۲) شگاف۔ چھید۔ سوراخ (۳) عورت کا اندام نہانی شرم گاہ۔ جمیع۔ فروج۔

فروج - (ا - ا - ہ - ا) (۱) (ف - امت) (۲) شگاف۔ چھید۔ سوراخ (۳) عورت کا اندام نہانی شرم گاہ۔ جمیع۔ فروج۔

فروج - (ا - ا - ہ - ا) (۱) (ف - امت) (۲) شگاف۔ چھید۔ سوراخ (۳) عورت کا اندام نہانی شرم گاہ۔ جمیع۔ فروج۔

فروج - (ا - ا - ہ - ا) (۱) (ف - امت) (۲) شگاف۔ چھید۔ سوراخ (۳) عورت کا اندام نہانی شرم گاہ۔ جمیع۔ فروج۔

فروج - (ا - ا - ہ - ا) (۱) (ف - امت) (۲) شگاف۔ چھید۔ سوراخ (۳) عورت کا اندام نہانی شرم گاہ۔ جمیع۔ فروج۔

فروج - (ا - ا - ہ - ا) (۱) (ف - امت) (۲) شگاف۔ چھید۔ سوراخ (۳) عورت کا اندام نہانی شرم گاہ۔ جمیع۔ فروج۔

فروج - (ا - ا - ہ - ا) (۱) (ف - امت) (۲) شگاف۔ چھید۔ سوراخ (۳) عورت کا اندام نہانی شرم گاہ۔ جمیع۔ فروج۔

فراغ خاطر - (ف - ر - ا - ح - ط - ا - ر) (۱) (ف - امت) (۲) تسلی۔ بے ندری۔ آسودگی۔

فراغت - (ف - ر - ا - ح - ت) (۱) (ع - ا - ہ - ا) (۱) (ف - امت) (۲) تسلی۔ بے ندری۔ آسودگی۔

فراغت پانا - (ف - ر - ا - ح - ت) (۱) (ع - ا - ہ - ا) (۱) (ف - امت) (۲) تسلی۔ بے ندری۔ آسودگی۔

فراغت جانا - (ف - ر - ا - ح - ت) (۱) (ع - ا - ہ - ا) (۱) (ف - امت) (۲) تسلی۔ بے ندری۔ آسودگی۔

فراغت سے بیٹھنا - (ف - ر - ا - ح - ت) (۱) (ع - ا - ہ - ا) (۱) (ف - امت) (۲) تسلی۔ بے ندری۔ آسودگی۔

فراق - (ف - ر - ا - ق) (۱) (ع - ا - ہ - ا) (۱) (ف - امت) (۲) تسلی۔ بے ندری۔ آسودگی۔

فراق دیدہ - (ف - ر - ا - ق) (۱) (ع - ا - ہ - ا) (۱) (ف - امت) (۲) تسلی۔ بے ندری۔ آسودگی۔

فراق زدہ - (ف - ر - ا - ق) (۱) (ع - ا - ہ - ا) (۱) (ف - امت) (۲) تسلی۔ بے ندری۔ آسودگی۔

فراک - (ف - ر - ا - ک) (۱) (ع - ا - ہ - ا) (۱) (ف - امت) (۲) تسلی۔ بے ندری۔ آسودگی۔

فراک کوٹ - (ف - ر - ا - ک) (۱) (ع - ا - ہ - ا) (۱) (ف - امت) (۲) تسلی۔ بے ندری۔ آسودگی۔

فراش - (ف - ر - ا - ش) (۱) (ع - ا - ہ - ا) (۱) (ف - امت) (۲) تسلی۔ بے ندری۔ آسودگی۔

فراش بدنا - (ف - ر - ا - ش) (۱) (ع - ا - ہ - ا) (۱) (ف - امت) (۲) تسلی۔ بے ندری۔ آسودگی۔

فراش کلا - (ف - ر - ا - ش) (۱) (ع - ا - ہ - ا) (۱) (ف - امت) (۲) تسلی۔ بے ندری۔ آسودگی۔

فراش کلا - (ف - ر - ا - ش) (۱) (ع - ا - ہ - ا) (۱) (ف - امت) (۲) تسلی۔ بے ندری۔ آسودگی۔

فراش کلا - (ف - ر - ا - ش) (۱) (ع - ا - ہ - ا) (۱) (ف - امت) (۲) تسلی۔ بے ندری۔ آسودگی۔

فراش کلا - (ف - ر - ا - ش) (۱) (ع - ا - ہ - ا) (۱) (ف - امت) (۲) تسلی۔ بے ندری۔ آسودگی۔

فراش کلا - (ف - ر - ا - ش) (۱) (ع - ا - ہ - ا) (۱) (ف - امت) (۲) تسلی۔ بے ندری۔ آسودگی۔

فراش کلا - (ف - ر - ا - ش) (۱) (ع - ا - ہ - ا) (۱) (ف - امت) (۲) تسلی۔ بے ندری۔ آسودگی۔

فراش کلا - (ف - ر - ا - ش) (۱) (ع - ا - ہ - ا) (۱) (ف - امت) (۲) تسلی۔ بے ندری۔ آسودگی۔

فراش کلا - (ف - ر - ا - ش) (۱) (ع - ا - ہ - ا) (۱) (ف - امت) (۲) تسلی۔ بے ندری۔ آسودگی۔

فرخ نہاد۔ (ف۔ع۔ص) اچھی طبیعت والا۔ نیک طبیعت۔
 فرخدار۔ (فر۔خار۔ف) (۱) منڈ (۱) سجادت زینت۔ (۲) ترکی کا ایک
 شہر جو اپنے باشندوں کی خوبصورتی کے لیے مشہور تھا۔
 فرخندہ (فر۔خند۔دہ) (ف۔ص) دیکھیے فرسخ۔ مبارک۔ خوش۔
 فرخندہ بخت (طالع۔قال۔ف) (ص) خوش نصیب نیک اختر خوش اقبال
 فرخندہ خوا۔ (ف۔ص) نیک نصلت
 فرخندہ قال۔ (ف۔ص) دیکھیے فرخ قال۔
 فرخندہ فرحام۔ (ف۔ص) جس کا نتیجہ اچھا ہو۔ مبارک۔
 فرخی۔ (فر۔رخی) (ف۔ص) مبارک کی خوش نصیبی۔
 فرد۔ (ع۔۱۔۱) (۱) واحد۔ ایک۔ سطلق۔ (۲) ایک شعر۔ دوہا (۳)
 فرست حساب۔ چٹھا۔ ریزٹر۔ (۴) لحاف یا رضائی کا اترہ۔ چادر۔
 شال۔ (۵) ایک آدمی۔ (۶) ایک پتند۔ (۷) تنہا۔ اکیلا۔ (۸)
 (ص) گیت۔ بے مثل جمع۔ افراد۔
 فرد باطل۔ (ع۔ف۔ص) حساب کا کاغذ جو ردی گردیا گیا ہو
 (۲) ہکتی۔ بے کاری۔
 فرد باقیات (ف۔ع۔ص) مثلاً بقایا حساب کی فہرست۔
 فرد تشخیص۔ (ف) تشخیص یا مال گزارگی کی فرد۔
 فرد بشر۔ (ع۔۱۔۱) (۱) شخص متیقن۔
 فرد تعلیقہ (ف۔ص) (۱) ضبطی جامدادی کی فہرست۔
 فرد جمع بندی۔ مال گزارگی کی فرد۔
 فرد حساب۔ (ف۔ص) حساب کا کچا چٹھا۔
 فرد تھنیت۔ عرضداشت۔ واجب العرض۔
 فرد فرد۔ (ف۔ص) ایک ایک الگ الگ۔ جدا جدا۔
 فرد قرار داو جرم۔ (ف۔ع۔ص) (۱) عدالت کا وہ کاغذ جس
 میں مجرم ٹھہرانے کا مضمون اور قانونی دفعہ شہادت لینے
 کے بعد درج ہوتی ہے۔
 فرد نکلوت۔ (۱) (ص) وہ کاغذ جس میں قیمت فصل کے تخمینے
 کی فہرست درج ہوتی ہے۔
 فرد اول۔ فرد دوم۔ فرد سوم۔ (۱) تابع فعل۔ فرد۔ ایک ایک کر کے
 فردا۔ (ف۔ص) (۱) افراد زمان۔ آئے والا دن۔ آئندہ کل (مجازاً) قیامت کا دن۔
 فردوس۔ (فر۔دوس) (ع۔۱۔۱) (۱) باغ۔ گلزار۔ گلشن (۲)
 بہشت۔ بہشت۔
 فردوس بریں۔ (ع۔۱۔۱) (۱) بہشت کا اعلیٰ طبقہ۔
 فردوس کوش۔ (ع۔ف۔ص) وہ جس کی آواز کا لڑن کو اچھی لگے۔
 فردوس مکانی۔ (ع۔ص) فردوس میں رہنے والا۔ وہ شخص
 جسے مرنے کے بعد فردوس نصیب ہو۔ (۲) انتقال کے
 بعد بابر بادشاہ کا لقب۔
 فردوس منزلت۔ (ع۔ص) جنت میں رہنے والا۔ مرحوم و مغفور۔
 فرد زانی (فر۔زان۔کی) (ف۔ص) (۱) منتقل۔ دانل۔ سمجھ (۲) علم حکمت۔
 فرزند۔ (فر۔نا۔نہ) (ف۔ص) (۱) عاقل۔ دان۔ دانش مند۔ سمجھ دار۔

ہوشیار۔ بہتر مند۔ لائق۔ بھیکم۔
 فرزند۔ (فر۔زند۔ن) (۱) منڈ۔ بیٹا۔ (۲) اولاد لڑکا یا لڑکی۔
 فرزند احمد۔ (ف۔ص) لائق بیٹا۔ بیار اور قابل قدر بیٹا۔
 فرزند خلعت۔ (ف۔۱۔۱) منڈ نیک اور صالح بیٹا۔ نیک بخت اور فرمانبردار
 بیٹا۔ سپوت۔
 فرزند رشید۔ (ف۔ع۔۱۔۱) منڈ نیک بیٹا۔
 فرزندنا خلعت۔ (ف۔ص) (۱) منڈ نالائق بیٹا۔ کچھرت۔
 فرزند سرینہ۔ (ف۔ع۔۱۔۱) منڈ بیٹا۔ لڑکا۔
 فرزند می۔ (فر۔زن۔می) (ف۔ص) بیٹا، بھیسے کی حالت۔ فرزند
 سے منسوب۔ باپ بیٹے کا تعلق۔
 فرزند می میں (قبول فرما) لینا۔ (۱) محاورہ (بیٹا بنانا۔ داماد بنانا)۔
 فرزین۔ (فر۔زین) (ف۔ص) (۱) دان۔ عاقل (۲) (۱) منڈ شطرنج
 کے کھیل میں وزیر کا مہرہ۔
 فرزین بنانا۔ (۱) محاورہ (میدل کا آخری خانے میں پہنچ کر وزیر میں جانا۔
 فرس۔ (ف۔رس) (ع۔۱۔۱) منڈ (۱) گھوڑا۔ اسپ۔ مرکب۔ (۲)
 شطرنج کا گھوڑا۔
 فرسا۔ (فر۔سا) (ف۔ص) (۱) تباہ کرنے والا۔ مرکبات میں بطور
 لاحقہ استعمال ہوتا ہے جیسے روح فرسا۔
 فرستادہ۔ (ف۔رس۔تا۔دہ) (ف۔ص) بھیجا ہوا۔ قاصد۔ ایلی۔
 فرسٹ۔ (First) (انگ۔ص) اول۔ سلا۔ آگلا۔ مقدم۔ سابق۔
 فرسٹ اننگ۔ (First Innings) کرکٹ میں پہلی دفعہ کھیل۔
 فرسٹ ایڈ۔ (First Aid) (انگ۔ص) (۱) ابتدائی
 طبی امداد حادثے کی صورت میں مریض کو ہسپتال لے جانے
 سے پہلے اس کی فردوسی مرہم پٹی کرنا۔
 فرسٹ کلاس۔ (Frist Class) اول درجہ۔ پہلا درجہ۔
 فرسخ۔ (فر۔سخ) (ع۔۱۔۱) منڈ تین میل سے زائد کا فاصلہ۔ ۱۸ ہزار
 فٹ کا فاصلہ۔
 فرسنگ۔ (فر۔سنگ) (ف۔۱۔۱) منڈ دیکھیے فرسخ۔
 فرسودگی۔ (فر۔سودگی) (ف۔ص) (۱) منڈ۔ پیرانا پن۔ گھساؤ۔
 سھٹاؤ۔
 فرسودہ۔ (فر۔سو۔دہ) (ف۔ص) (۱) گھسا ہوا۔ پھٹا ہوا۔ کج
 پڑنا۔ (۲) تھکا ماندہ۔ خستہ حال۔
 فرسودہ حال۔ (ع۔ف۔ص) (۱) منڈ تباہ حال۔ خستہ حال۔
 فرس۔ (ع۔۱۔۱) منڈ بچھونا۔ لیٹر بچھانے کی چیز۔ بوریہ۔ خالیچہ (۲) زمین
 (۳) جسے دغیرہ سے بچنے کی ہوتی زمین۔
 فرس بچھانا۔ (۱) محاورہ (پلنگ پڑ بچھونا وغیرہ کرنا۔
 فرس خاک۔ (ف۔۱۔۱) منڈ زمین۔
 فرس راہ۔ (ف۔۱۔۱) منڈ راستے پر بچھا ہوا۔ انکساری اور سمان نوازی
 کی علامت۔
 فرس زمین ہونا۔ (۱) محاورہ (دفن ہونا۔

فرض - (ع۔ ۱۔ منہ) وہ کام جو خدا کے حکم سے ضروری ہو۔ (۲) ضروری لازمی (۳) غازی وہ کہتے ہیں کاپڑھنا لازمی ہے۔ (۴) منہ داری۔ بارگاہت (۵) نکاح۔ جمع۔ فرض۔ فرض ادا کرنا۔ (۱۔ محاورہ) ادا خدا کا حکم بجالانا۔ (۲) اپنے اوپر جو کچھ واجب ہے اس کا بجالانا۔
فرض پڑھنا - (۱۔ محاورہ) نماز کی ان رکعتوں کا پڑھنا جو خدا سے لازم کر دی ہیں۔
فرض سے ادا ہو جانا - (۱۔ محاورہ) اولاد کی شادی کر کے سبک دوش ہو جانا۔
فرض عائد ہونا - (مص مرکب) ذمہ دار ہونا۔ لازم ہونا۔
فرض عین - (ع۔ ۱۔ منہ) خاص فرض۔ ضروری فرض۔ نہایت ضروری کام یا فریضہ۔
فرض کرنا - (مص مرکب) تسلیم کرنا۔ خیال کرنا۔ جانا۔ مان لینا۔
فرض کفایہ - (ع۔ ۱۔ منہ) وہ فرض جو چند آدمیوں کے کرنے سے سب کے سر سے اتر جائے جیسے خانہ جازہ۔ سلام کا جواب دینا۔
فرض محال - (ع۔ ۱۔ منہ) ناممکن۔ ایسی چیز کا مان لینا جس کا واقع ہونا ناممکن ہو۔
فرض موقوف - (ع۔ ۱۔ منہ) وہ فرض جسے وقت پر مقرر کیا جائے۔
فرض ہونا - (۱۔ مص مرکب) لازم ہونا۔
فرضاً - (ف۔ صفت) (ع۔ ۱۔ منہ) فعل (۱) اللہ کے فرض (۲) بالقرض۔ قیاساً۔
فرضی - (ف۔ صفت) (ع۔ ۱۔ منہ) خیالی۔ قیاسی۔ مصنوعی۔ نقلی۔
فرضیت - (ف۔ صفت) (ع۔ ۱۔ منہ) فرضیت۔ فرض ہونا۔ لازم و ضروری ہونا۔
فرد - (ع۔ ۱۔ منہ) زیادتی۔ علیہ۔ کثرت۔ اقراط۔
فرد - (ع۔ ۱۔ منہ) (۱) ٹہنی۔ شاخ۔ ڈالی (۲) وہ جس کی اصل کرنی اور چیز ہو۔ جمع۔ فردوع۔ فردعات۔
فردعون - (ف۔ صفت) (ع۔ ۱۔ منہ) مہر کے قدم بادشاہوں کا لقب (۲) تکبیر معزود۔ سرکش۔ ظالم (۳) باغی۔ نافرمان۔ جمع۔ فراعنہ۔
فردعون - (ع۔ ۱۔ منہ) وہ شخص جو بے مقصدت ہونے پر بھی اترائے اور سرکشی کرے۔ (۲) حکیم۔ ظالم۔
فردعونی - (ف۔ صفت) (ع۔ ۱۔ منہ) (۱) فردعونی۔ (۲) فردعونی۔ (۳) (ع۔ ۱۔ منہ) بد ذاتی۔ خیرات۔ سرکشی۔ تکبیر فرد۔
فردغانہ - (ف۔ صفت) (ع۔ ۱۔ منہ) ایک سرد (۲) جمہوریہ ازبکستان کا ایک علاقہ جو بابر کا وطن تھا۔
فردعل - (ف۔ صفت) (ع۔ ۱۔ منہ) رونی دار لبادہ۔
فردفر - (ف۔ صفت) (ع۔ ۱۔ منہ) جلد جلد۔ بواکلی طرح۔
فردفر آدینا - (۱۔ محاورہ) جلد جلد کاٹ ڈالنا۔ (۲) جلد سی جلد سی پڑھ جانا۔
فردفر پائیں کرنا - (مص مرکب) جلد جلد ہونا۔
فردفر پڑھنا - (مص مرکب) اے اے جلد جلد پڑھنا۔

فرض فروش - (ف۔ منہ) بچھانے کی چیزیں۔
فرض کرنا - (۱۔ محاورہ) بارگاہت بچھانا (۲) چرنے وغیرہ سے زمین کی سطح ہموار کرنا (۳) مار مار کر جو نمکال دینا۔
فرض گل - (ف۔ ۱۔ منہ) پھیولوں کی سیخ۔
فرض ہونا - (۱۔ محاورہ) چرنے وغیرہ سے زمین کی سطح ٹھیک ہونا۔
فرضگان - (ف۔ صفت) گان۔ (ع۔ ۱۔ منہ) فرشتہ کی جمع۔ ملائکہ۔
فرضتہ - (ف۔ صفت) (ع۔ ۱۔ منہ) (۱) بھیجا ہوا۔ رسول۔ ناصد۔ (۲) اسلامی عقیدہ کے مطابق ایک مخلوق جو لڑنے سے بنی ہے۔
فرضتہ پر نہیں ملتا - (۱۔ محاورہ) کوئی غیر ادر اجنبی کسی طرح نہیں جاسکتا کسی کا گذر نہیں۔ بڑی روک ٹوک ہے۔
فرضتہ ماتنا - (۱۔ محاورہ) نیک خصلت سمجھنا۔
فرضتہ خصال - (۱۔ منہ) بار خصال۔ زبردست آدمی۔ رعب داب والا آدمی۔
فرضتہ خصال خصلت - (ع۔ ۱۔ منہ) سیرت۔ صفت۔ (ف۔ صفت) نیک لینت پاک۔ مقدس۔ بھولا۔ بھالا۔ سیدھا سا۔ شریف۔
فرضتہ سیرت - (ف۔ ۱۔ منہ) (ع۔ ۱۔ منہ) بھلا ماض۔ نیک طبیعت۔
فرضتہ صورت - (ف۔ ۱۔ منہ) (ع۔ ۱۔ منہ) صورت سے بہت نیک معلوم ہو۔
فرضتہ ممرگ - (ف۔ ۱۔ منہ) ملک الموت۔ موت کا فرشتہ عزرائیل۔
فرضتہ ہے - (۱۔ محاورہ) بہت نیک ہے۔
فرضتوں کو خبر نہ ہونا - (۱۔ محاورہ) فرشتوں کو علم نہ ہونا (۲) کسی کو مطلق پتہ نہ ہونا۔ نہایت راز میں رہنا۔ (۳) بالکل بے خبر رہنا۔ محض نادراقت ہونا۔
فرضتوں کے پڑھنا - (۱۔ محاورہ) تاب نہ ہونا۔ مجال نہ ہونا۔ رعب۔ جلال یا خوف کے باعث حوصلہ نہ پڑنا۔ بیوقوف نہ ہونا۔
فرضتوں نے گھر دیکھ لیا - (۱۔ محاورہ) موت نے گھر دیکھ لیا۔ پے در پے موتیں ہونے پر کہتے ہیں۔
فرضتوں کے پڑھنا - (۱۔ محاورہ) فرشتوں سے بازی بے جانا۔
فرضتے کا گھر نہ ہونا - (۱۔ محاورہ) کسی کی رسائی نہ ہونا۔
فرضتے دکھائی دینا - (۱۔ محاورہ) مرنے کا وقت قریب آنا۔ موت نظر کرنا۔
فرضتے کا کان میں ٹھونکنے - (۱۔ محاورہ) ٹھونکنا۔ معزور ہونا۔
فرضی - (ف۔ صفت) (ع۔ ۱۔ منہ) فرض سے مشوب۔
فرضی حقد - (۱۔ منہ) جوڑے میں سے کا حقد۔
فرضی سلام - (ف۔ ۱۔ منہ) دیکھتے فرشتی سلام۔ گورنش۔ بہت جھک کر سلام کرنا۔
فرضی لیب - (ف۔ ۱۔ منہ) فرض پر رکھنے والا لیب۔
فرضت - (ف۔ صفت) (ع۔ ۱۔ منہ) (۱) ہمت۔ فراغت (۲) چھٹی۔
فرضت پانا - (۱۔ محاورہ) اطمینان کرنا۔ موقع (۲) غفلت کا وقت۔
فرضت پانا - (۱۔ محاورہ) (۱) چھٹی پانا۔ ہمت پانا۔ (۲) موقوف ہونا برطرف ہونا۔
فرضت سے - (۱۔ منہ) (ع۔ ۱۔ منہ) اطمینان سے۔ موقع سے۔
فرضت میں - (۱۔ منہ) (ع۔ ۱۔ منہ) اطمینان سے۔ تہائی میں۔

فرمان بالمشافہہ - (ف - ع - ا - مذ) زبانی حکم - جس کی تعمیل فوراً ہو۔

فرمان بردار - فرمان پذیر - (ف - صفت) (۱) میلح - (۲) سابع - (۳) توکر جاگر۔

فرمان برداری - (ف - ا - مذ) اطاعت کرنا - حکم ماننا۔

فرمان (جاری) صادر کرنا - (مضمر مرکب) حکم جاری کرنا۔

فرمان روا - (ف - صفت) حکمران - حاکم - بادشاہ۔

فرمان روانی - (ف - ا - مذ) حکمرانی - بادشاہت - حکومت۔

فرمان واجب الاذعان - (ف - ع - ا - مذ) ایسا حکم جس کی تعمیل ضروری ہو۔

فرمان ہار - (ف - ا - مذ) فرمان دینے والا۔

فرماننا - (ف - ا - مذ) فرمان دینا - کہنا - بیان کرنا۔

فرمائش - (ف - ما - ا - مذ) درخواست - طلب - مانگ - تمنا - حاجت - ضرورت۔

فرمائش کرنا - (ا - محاورہ) چاہنا - کوئی چیز طلب کرنا۔

فرمائشی - (ف - ما - ا - مذ) خواہش - فرمائش کی ہوئی - حکمانگوائی - یا بنوائی ہوئی (۲) عمدہ - نفیس - پرتکلف (۳) جوتوں کی مار - مضائقہ گویا۔

فرمائشی لڑنا - (ا - محاورہ) جوتیاں لڑنا - جوتیاں لگانا۔

فرمائشی لگانا - (ا - محاورہ) خوب جوتیاں مارنا۔

فرمودگی - (ف - ہ - مذ) (ف - ا - مذ) ارشاد - حکم - فرما۔

فرمودہ - (ف - ہ - مذ) (ف - ا - مذ) فرمایا ہوا - ارشاد و حکم۔

فرن (Fern) (انگ) - (ا - مذ) کالی کے قسم کے پودے جو نہروں اور پانی کے آس پاس اگتے ہیں۔

فرنٹ (Front) (ف - رنٹ) (انگ) - (صفت) (۱) سامنا - مقابل - کا حصہ - بائیں - سرکش - منحرف (۲) محاذ - مورچہ۔

فرنٹ بوجھانا - (ا - محاورہ) بگڑ جانا - بائیں بوجھانا - (۲) رنجیدہ ہو جانا - تاراض بوجھانا۔

فرنٹیئر (Frontier) (ف - رن - ٹ - انگ) (صفت) سرحد - فرینچ - (ف - رینچ) (انگ) (۱) مذ) فرانس کا باشندہ - (۲) ایک قسم کا پکانا کاغذ جو فرانس میں بنتے ہیں۔

فرنچ لیدر - (انگ) (۱) مذ) پلاسٹک وغیرہ کا ایک تول جو بوقت جماع مخصوص ناسل پر چھایا جاتا ہے تاکہ نطفہ رحم میں داخل نہ ہو سکے۔

فرنچ کٹ ڈاڑھی - (انگ) (۱) مذ) ایک خاص قسم کی ڈاڑھی جس میں کھوں کے بال تراش دیتے ہیں - اور کھوڑی کے بال مقابلاً بڑے ہوتے ہیں۔

فرننگ - (ف - رینگ) (ف - صفت) (۱) یورپ سے متعلق مغربی (۲) تلوار (رق)۔

فرننگستان - (ف - رن - گس - تان) (ف - ا - مذ) یورپ۔

فرنٹی - (ف - رن - گس) (ف - ا - مذ) یورپی - انگریز - مغربی۔

فرز ہو آنا - (ا - محاورہ) تیزی سے ہونا۔

فرز مالش - (ف - ریز - ما - ا - مذ) (۱) مذ) فرمائش وغیرہ - تنخواہ کے علاوہ دیگر آمدنی۔

فرز مری - (ف - رسی) (ف - ا - مذ) (۱) مذ) بچوں کی بنائی ہوئی ایک لولی جس میں ہر لفظ میں جا بجا بڑھاتے ہیں۔

فرق - (ع - ا - مذ) (۱) مذ) (۲) عدائی - علیحدگی (۳) فاصلہ - دوری (۴) اختلاف (۵) تمیز - شناخت (۶) سر کے بالوں کی مانگ (۷) کمی - کسر گھٹانا (۸) بیگانگی - غیرت - جمع - افتراق۔

فرق (آجانا) آنا - (ا - محاورہ) غیرت بوجھانا - پہلے سی بات نہ رہنا (۲) بات بگڑنا - بٹانکنا (۳) اصلیت میں اختلاف بوجھانا - (۴) خلل واقع ہونا (۵) کدورت آجانا۔

فرق باقی رہنا - (ا - محاورہ) اتفاق نہ مٹنا۔

فرق پڑنا - (ا - محاورہ) اختلاف ہونا - میل نہ کھانا۔

فرقدان - (ف - ا - مذ) سر - کھوپڑی۔

فرق سے - (ا - متعلق فعل) فاصلے سے۔

فرق کرنا - (مضمر مرکب) یکساں نہ سمجھنا (۲) جدا کرنا (۳) صورت بدل دینا۔

فرق لانا - (ا - محاورہ) یکساں نہ رکھنا - کم کر دینا۔

فرق نکالنا - (ا - محاورہ) (۱) غلطی نکالنا (۲) اختلاف دور کرنا۔

فرق ہونا - (مضمر مرکب) اختلاف ہونا - کمی زیادتی ہونا (۲) جدائی ہونا۔

فرقان - (ف - ران) (ع - صفت) (۱) حق اور باطل میں فرق کرنے والا (۲) (۱) مذ) قرآن شریف - حکام مجید۔

فرقت - (ف - رقت) (ع - ا - مذ) جدائی - ہجر - علیحدگی۔

فرقہ - (ف - رقا) (ع - ا - مذ) قوم - جماعت - گروہ - فریق۔

فرقہ بندی - (ع - ف - ا - مذ) جماعت بنانا - کسی گروہ کی تنظیم۔

فرقہ پرست - فرقہ پسند - (ع - ف - صفت) اپنی جماعت کو طرف دار - تنگ نظر۔

فرقہ دار - (ع - ف - صفت) فرقے کے متعلق - ہر فرقے کا انگ انگ۔

فرقہ دار نہ - (ع - ف - صفت) جماعت دار - ہر فرقے کا علیحدہ علیحدہ۔

فرقہ داریت - تعصب اور تنگ نظری - اپنے مذہب یا گروہ کی طرف داری اور دوسروں کی مخالفت۔

فرلانگ (Furlong) (ف - لانگ) (انگ) (۱) مذ) دو بیس گز کا فاصلہ - میل کا آٹھواں حصہ۔

فرلو - (Furlovah) (ف - لو) (انگ) (۱) مذ) لمبی رخصت ہیردن ملک ہانے کی رخصت۔

فرم (Firm) (انگ) (۱) مذ) کارخانہ - کمپنی - دکان - کاروباری ادارہ۔

فرما - (ف - رما) (ف - ا - مذ) (۱) مذ) فارم کا مغرب - چھپا ہوا - کاغذ پختہ (۲) قالب - ڈھانچہ۔

فرما موڑنا - (ا - محاورہ) چھپے ہوئے کاغذوں کو ترتیب سے موڑ کر پڑھنا۔

فرمان - (ف - رمان) (ف - ا - مذ) شاہی حکم نامہ - پورہ - پٹنای - منہ - جمع - فرامین۔

فساد پھیلانا - (۱) - محاورہ [غرابی پھیلانا - جھگڑا کرنا - دنگا کرنا -
فساد خون (رع - ہٹ - ۱ - مذ) خون کی خرابی -
فساد کی جڑ فساد کی گانٹھ - فساد کا گھر - (۱ - مذ - مرث) اصل مُفسد
جھگڑے کی بنیاد -
فساد (چھینا) ہونا - جھگڑا ہونا - لڑائی ہونا - غدر ہونا -
فساد کی نیت سے - (۱ - متعلق فعل) بد نیتی سے - جھگڑے
کی نیت سے -

فسادِ معدہ - (رع - ۱ - مذ) معدے کا گناہ - پیٹ کا فصل -
فسادی - (ف - ساد ہی) [اُر - صف] فساد پھیلانے والا - فتنہ انگیز -
جھگڑا لو - خُربے -
فساق - (رع - صف) فاسق کی جمع -

فسال - (ف - سالی) [ف - ۱ - مذ] سان - دروازے پر کرنے کا پتھر -
فسانہ - (ف - سانس) [ف - ۱ - مذ] (۱) گھڑا ہوا قصہ - بنائی ہوئی بات - کہانی -
(۲) سرگذشت - حال - احوال -

فسخ - (رع - ۱ - مذ) ارادہ توڑنا - منسوخ کرنا - رائے پھیرنا -
فسخِ عہد - (رع - ۱ - مذ) [ارادہ پلٹنا -
فسخ کرنا - (مضمرکب) توڑنا - منسوخ کرنا - رد کرنا -

فسردگی - (ف - سردگی) [ف - ۱ - مذ] دیکھیے افسردگی - رنج - اضمحلال -
فسردہ - (ف - سردہ) [ف - صف] دیکھیے افسردہ - رنجیدہ - مایوس -
فسطاطِ کبریت - (ف - ط - ای - اُت) [اُر - ۱ - مذ] فاشنزم - سرمایہ دار
طبقے کی جارحانہ آمریت -

فسق - (رع - ۱ - مذ) نافرمانی - جرم - بدکاری - گناہ -
فسق و فجور - (رع - ۱ - مذ) بدکاری - گناہ کاری
فسوں - (ف - سول) [ف - ۱ - مذ] جادو - منتر - فریب - دھوکا -
فسوں ساز - فسوں گر - جادو گر - ساحر -
فسوں سازی - فسوں گری - جادو گری کا پیشہ -

ف - ش

فَش - (ف - ۱ - مذ) پگڑی کا شملہ - طرہ - (۲) گھوڑے کی دم -
فَش - (ن کبر حقیر) [اص - لوح - لیے حقیقت -
فَش - (ش - ۱ - مذ) [ف - ۱ - مذ] دبانہ - بھینپنا - (۲) قبر کا مڑے
کوبھینپنا - (۳) پھیلانا -

فشارِ بگڑ جانا - (۱ - محاورہ) حالت خراب ہونا - تھک جانا - گھبرا جانا -
فشارِ دمِ خون - (ف - ۱ - مذ) خون کا دباؤ - (نگ) (Blood Pressure)
فشارِ قبر (دور) - (ف - ۱ - مذ) قبر کا مڑے کو بھینپنا
فشار ہونا - (۱ - محاورہ) دبوچا جانا - پریشان ہونا - تھک کر چُور
ہونا -
فشرودہ - (ف - شر - وہ) [ف - صف] (۱) نچڑا ہوا - عرق نکالا ہوا - رُس

فریدی - (ف - ری - دی) [اُر - ۱ - مرث] (۱) بابا فرید کی نیاڑ کا گھانا (۲)
وصف [فرید سے منسوب

فریسس - (ف - ریس) [اُر - صف] فراست والا - دانش مند
فریسی - (Pharisee) [ف - ری - سی] [انگ - صف] قدیم یہودی
فرقہ جو رسم برستی ظاہر دانی میں مشہور تھا - رسم پرست - ظاہر دار -

فریضہ - (ف - ری - ضہ) [رع - ۱ - مذ] واجب - لازم - مزدوری - جمع - فرائض -
فریضہ ادا کرنا - (مضمرکب) فرض پورا کرنا - حکم بجالانا -
فریقگی - (ف - ریف - گ) [ف - ۱ - مرث] عشق - محبت - چاہت -
فریقہ - (ف - ریف - تہ) [ف - صف] عاشق - دلدادہ - جمع بہ فریقگان
فریق - (ف - ریف) [رع - ۱ - مذ] (۱) جماعت - گروہ - فرقہ - (۲) جتھا - (۳)
تدریعی - مدعا علیہ -

فریقِ اَدل - مدعی - وہ شخص یا گروہ جس نے دعویٰ کیا ہو -
فریقِ ثانی - مدعا علیہ - وہ شخص یا گروہ جس پر دعویٰ کیا گیا ہو -
فریقیتن - (ف - ری - تین) [رع - ۱ - مذ] دونوں فریق - مدعی اور مدعا علیہ -
طریقین - جاہلین -

فریم - (Framel) [ف - ریم] [انگ - ۱ - مذ] بیکو کٹا - تصویر کا چوکٹا -
دھاج - نیچر ڈھیر -

فری مینس - (Free Mason) [ف - ری - سے - سن] [انگ - ۱ - مذ]
دیکھیے فرامسن - ایک عالم گیر برادری یا بجن جس کے رسم و رواج اور طور
طریقے خفیہ ہوتے ہیں -

ف - ز

فزا - (ف - ز) [ف - صف] بڑھانے والا - زیادہ کرنے والا - مرکبات میں مستعمل ہے
جیسے راحت فزا - جاں فزا -

فزع - (ف - زع) [رع - ۱ - مرث] ڈر - دہشت - خوف - ہراس -
فزل - (ف - زل) [مذ] ہتھوڑا -

فزول - (ف - زول) [ف - صف] زیادہ - بڑھا ہوا -
فزولنی - (ف - زولنی) [ف - ۱ - مرث] زیادتی - افراط - کثرت - (۲)
بڑائی - بہتری -

ف - س

فساد - (ف - ساد) [رع - ۱ - مذ] (۱) تباہی - خرابی - (۲) فتنہ - بلوہ - لڑائی جھگڑا -
جنگ نامہ (۳) شرارت - مخالفت - جمع فسادات -

فساد اٹھانا - (بریا کرنا) - (۱ - محاورہ) جھگڑا کھڑا کرنا - بلوہ کرنا - ہنگامہ برپا
کرنا - فتنہ برپا کرنا
فساد پڑنا - (۱ - محاورہ) جھگڑا ہونا - لڑائی ہونا -

عرق۔ افسردہ۔

ہے۔ (۲) مطلب کا آشنا۔ غرض کا دوست۔

فصلی میوہ۔ (ع۔ ف۔ ا۔ نڈ) موسم کا پھل۔

فصلی (دفعہ نمونہ) (ع۔ ف۔ ا۔ نڈ) فصل کی جمع۔

فصلی اربعہ۔ (ع۔ ف۔ ا۔ نڈ) سال کی چار فصلیں۔ سردی۔ گرمی۔ بہار۔ خزاں۔

فصلی (دفعہ نمونہ) (ع۔ ف۔ ا۔ نڈ) خوش بیان۔ شیریں کام۔

فصلی (دفعہ نمونہ) (ع۔ ف۔ ا۔ نڈ) (صفت) دلدار۔ حیا دلپازی (۲) شہر بنیاد۔

ف۔ ص

فصاحت۔ (ن۔ ص۔ ح۔ ب) (ع۔ ا۔ م۔ ت) خوش کلامی۔ خوش بیانی۔ علم معانی کے مطابق کلام میں ایسے الفاظ لانا جو روزمرہ اور محاورے کے خلاف نہ ہوں۔ اور موقع و محل کے مطابق ہوں۔

فصّاد۔ (ن۔ ص۔ ا۔ م۔ ا۔ ن) (ع۔ ا۔ ص. ص. ف) فصّد کھولنے والا۔ جراح۔

فصحا۔ (ن۔ م۔ ص. ح. ا.) (ع۔ ا۔ نڈ) فصیح کی جمع۔ خوش بیان لوگ۔

فصد۔ (ع۔ ا۔ م. ث) نشتر لگانا۔ رگ سے خون لینا۔

فصد کھلوانا۔ (۱) محاورہ [رگ سے خون نکلوانا۔ رگ پر نشتر دلوانا۔

فصد لینا۔ (۱) محاورہ [رگ سے خون نکلانا۔ (۲) اپنے جنون

یا سودا کا علاج کرنا

فصل۔ (ع۔ ا۔ م. ث) (۱) موسم بڑت۔ سماں۔ (۲) کتاب یا کلام کا ایک

حصہ۔ باب۔ (۳) جدائی۔ تفرق۔ علیحدگی۔ (۴) حجاب۔ پردہ۔ اوٹ

دو چیزوں کے بیچ کا حجاب۔ (۵) قطع۔ برید۔ (۶) غلّہ۔ اناج۔

پیداوار جمع۔ فصول۔

فصل آنا۔ (۱) محاورہ [موسم آنا۔ پھول آنا۔

فصل اٹھنا۔ (۱) محاورہ [کھیت سے اناج کٹ کر گھر پہنچ جانا۔

فصل استادہ۔ (ع۔ ف۔ ا۔ م. ث) مشتم کھڑی کھیتی۔

فصل بگڑنا۔ (۱) محاورہ [آب و ہوا یا پیداوار خراب ہونا۔

فصل بہار۔ (ع۔ ف۔ ا۔ م. ث) بہار کا موسم۔

فصل خرابی۔ (ع۔ ف۔ ا۔ م. ث) (۱) مدت [ہندی سال کے پہلے چھ مہینے اسلئے

سے ماگھ تک کی ساؤنی فصل جس میں جوار۔ باجور۔ موٹنگ۔ موٹھ۔

دھان وغیرہ پیدا ہوتے ہیں۔

فصل زریع۔ (ع۔ ف۔ ا۔ م. ث) [مدت [ہندی سال کے آخری چھ مہینے پوری

سے جیٹھ تک باڑی کی فصل جس میں گجوں چنا۔ مسور وغیرہ

پیدا ہوتے ہیں۔

فصل کاٹنا۔ (۱) محاورہ [تیار کھیتی کاٹنا۔

فصل کا چیز۔ (۱) مدت [موسم کا میوہ۔

فصل کل۔ (ع۔ ن۔ ا. م. ث) پھولوں کا موسم بہار کا موسم۔

فصلانہ۔ (ف. ص. ن. ل. ا. ن. ت) (۱) مدت [وہ رقم جو فصل تیار ہونے پر زمیندار یا

پجوری کو دی جائے۔

فصلی۔ (ن. ق. ص. ل. ی.) (ع۔ ا۔ نڈ) فصل سے منسوب۔ موسمی رت کا۔

فصلی بخار۔ (ع۔ ف۔ ا۔ نڈ) وہ بخار جو موسم بدلنے کے زمانے

میں آتا ہے۔ لمبریا۔

فصلی سال۔ (ع۔ ف۔ ا۔ نڈ) [وہ سال جو فصلوں کے اعتبار سے اپریل یا

مئی میں شروع ہوتا ہے۔

فصلی گوا۔ میاڑی گوا جو سردی میں پہاڑوں سے اتر کر میدان میں آجاتا

ف۔ ص

فضا۔ (ن. ض. ا. م. ث) (۱) زمین کی کشادگی۔ وسعت۔ فراخی۔ سطح

میدان۔ (۲) بہار۔ رونق۔ کیفیت۔

فضائل۔ (ن. ض. ا. م. ث) (ع۔ ا۔ نڈ) فضیلت کی جمع۔ (۱) نیکیاں۔ خوبیاں

(۲) بہتر۔ کمالات۔

فضائل اربعہ۔ چار خوبیاں۔ حکمت۔ شجاعت۔ عقبت۔ عدالت۔

فضائیمہ۔ (ن. ض. ا. م. ث) (۱) (ع۔ ا۔ نڈ) کسی ملک کے سرکاری ہوائی

جہازوں یا مخصوص جنگی طیاروں کا بیڑہ۔ ایئر فورس۔

(Air Force)

فضیل۔ (ع۔ ا۔ نڈ) (۱) زیادتی۔ افزونی (۲) علم و ہنر۔ جوہر۔ (۳) رحم مہربانی

بخشش۔ (۴) بزرگی۔

فضیل الہی اک طرف ساری خدائی اک طرف۔ (۱) مثل

ساری دنیا مخالف ہو جائے لیکن خدا کا کریم اگر شامل حال ہے تو کون

نقصان نہیں پہنچا سکتا۔

فضیل خدا شامل حال ہونا۔ (۱) محاورہ [کسی کے حال پر خدا کا

کریم ہونا۔ ترقی کا زمانہ ہونا۔

فضیل مولیٰ۔ (فقرا کی دعا) خدا کا فضل رہے۔ اللہ کا کریم رہے۔

فضیل مولیٰ از ہمہ اولیٰ۔ خدا کا کریم ہر چیز سے بہتر ہے

فضیل ہونا۔ (۱) محاورہ [خدا کی مہربانی ہونا۔

فضیلا۔ (ن. ص. ل. ا. ن. ت) (ع۔ ا۔ نڈ) فاضل کی جمع۔ علماء۔

فضیلات۔ (ن. ص. ل. ا. ن. ت) (ع۔ ا۔ نڈ) فضیلت کی جمع۔

فضیلا۔ (ن. ق. ص. ل. ی.) (ع۔ ا۔ نڈ) (۱) سچا ہونا۔ پس خوردہ۔ جھوٹا گھانا۔ (۲) کسی

چیز کا سبھوک (۳) پاخانہ جمع۔ فضیلات۔

فضول۔ (ن. ق. ص. ل. ی.) (ع۔ ص. ف) جمع کی جمع (۱) زیادہ۔ از حد۔ کثیر۔ (۲)

بے فائدہ۔ لا حاصل۔ بیکار۔ نکما۔ (۳) فالتو۔ زائد۔

فضول آدمی۔ (ع۔ ا۔ نڈ) بیہودہ آدمی۔ نکما آدمی۔

فضول خرچ۔ (ع۔ ا۔ ص. ف) بے جا اور بے موقع خرچ کرنے والا۔

فضول خرچی۔ (۱) مٹا ہے جانچ۔ مزدورت سے زیادہ خرچ۔ اسراف

فطر تا (فطر - برتن) (ع) قدرتا۔ فطرت کے رُو سے۔
فطرتی (فطر - برتن) (ف) صفت (۱) قدرتی۔ پیدائشی (۲) خیراتی۔ فطر پر باز (۳) شوخ۔ چالاک۔
فطرہ فطرانہ (فطر - رزہ) (فطر - رازہ) (ع) - (۱) عید رمضان کا صدقہ جوئی آدمی سزا دو سیر گیسوں یا چار سیر جو مقر رہیں۔ اور نماز عید سے قبل غزیا کو دیے جلتے ہیں۔
فطری (ع) صفت پیدائشی فطرت کے مطابق۔
فطیرہ (ف) طیر (ع) - (۱) تازہ گندہ ہوا کا جس کا خمیر اٹھا ہو۔
فطیری روٹی - وہ روٹی جس میں خمیر ہو۔ پھیکا۔ چپاتی۔
فطین - (ف) طین (ع) صفت (۱) ذہین۔ دانا۔ ذہیرک (۲) چالاک۔ شریر۔

بے موقع خرچ
فضول گو - (ع) ف - مذ] بے ہودہ بکنے والا۔ بے کار باتیں بنانے والا۔ بچی۔ کبوتری۔
فضول ہونا - (ع) محاورہ] بے کار ہونا۔ ضرورت سے زیادہ ہونا۔ لاصل اور لغو ہونا۔
فضولی (ف) مَعُولی (ع) صفت] بے ہودہ۔ زیادہ گو۔
فضیلت - (ف) فضیلت (ع) - (۱) مہمت] چاندی۔
فضیلتا - فضیلتا (ف) فضیلتا (ف) - (۱) مہمت] فضیلت کا بجا ہونا۔
فضیلت - (ف) فضیلت (ع) - (۱) مہمت] فضیلت کا بجا ہونا۔
فضیلت - (ف) فضیلت (ع) - (۱) مہمت] فضیلت کا بجا ہونا۔
فضیلت - (ف) فضیلت (ع) - (۱) مہمت] فضیلت کا بجا ہونا۔
فضیلت - (ف) فضیلت (ع) - (۱) مہمت] فضیلت کا بجا ہونا۔

ف - ع

فقال - (ع) - (۱) مبالغہ] بہت زیادہ، کام کرنے والا۔ سرگرم (۲) اللہ تعالیٰ۔
فعل - (ع) - (۱) مذ] کام۔ کاج۔ عمل (۲) علم صرف میں وہ کلمہ جس میں کوئی زمانہ پایا جائے۔ (۳) حرکت۔ جیش (۴) لہجہ۔ حرکت۔ بُری حرکت (۵) حیلہ۔ بہانہ (۶) بد فعلی۔ بُرا کام۔ جمع۔ افعال۔
فعل جاکر - (ع) - (۱) مذ] وہ کام جو شرعاً ناجائز اور اخلاقاً قارہ ہو۔
فعل متعدي - (ع) - (۱) مذ] شرم ناک کام۔ بُری حرکت۔
فعل صائم - (ع) - (۱) مذ] نیک چلنی کی صفات۔
فعل عیث - بے فائدہ کام۔ فضول کام۔
فعل کرنا - (ع) - (۱) محاورہ] لوٹ کر کرنا۔ برنا کرنا۔ بدکاری کرنا۔
فعل کرنا - (ع) - (۱) محاورہ] کوئی کام یا حرکت کرنا (۲) مباشرت کرنا۔ بد فعلی کرنا (۳) ملکر کرنا۔ فریب سے کام لینا۔
فعل لازم - (ع) - (۱) مذ] علم صرف میں وہ فعل جو فاعل پر تمام ہو جائے اور مفعول کو نہ چاہے۔
فعل متعدی - (ع) - (۱) مذ] علم صرف میں وہ فعل جو فاعل سے بڑھ کر مفعول پر تمام ہو۔
فعل معمول - (ع) - (۱) مذ] علم صرف میں وہ فعل جس کا فاعل معلوم نہ ہو۔
فعل معلوم - (ع) - (۱) مذ] علم صرف میں وہ فعل جس کا فاعل معلوم ہو۔
فعل نا جاکر - (ع) - (۱) مذ] وہ کام جس کا کرنا خیر یا قانون کی رُو سے منع ہو۔
فعل ناشائستہ - (ع) - (۱) مذ] نامناسب حرکت۔ غیر واجب کام۔
فعل ناقص - (ع) - (۱) مذ] وہ فعل جس کا فاعل اور مفعول معلوم نہ ہوں۔ بلکہ فعلاً - (۱) مذ] لکن (ع) - (۱) مذ] تابع فعل عمل کے رُو سے۔

فضیلت - (ف) فضیلت (ع) - (۱) مہمت] بزرگی۔ برتری۔ فوقیت (۲) علم و فضل (۳) نیکی۔ کمال۔ عمدگی۔ جمع۔ فضائل۔
فضیلت - (ف) فضیلت (ع) - (۱) مہمت] بزرگی۔ برتری۔ فوقیت (۲) علم و فضل (۳) نیکی۔ کمال۔ عمدگی۔ جمع۔ فضائل۔
فضیلت - (ف) فضیلت (ع) - (۱) مہمت] بزرگی۔ برتری۔ فوقیت (۲) علم و فضل (۳) نیکی۔ کمال۔ عمدگی۔ جمع۔ فضائل۔
فضیلت - (ف) فضیلت (ع) - (۱) مہمت] بزرگی۔ برتری۔ فوقیت (۲) علم و فضل (۳) نیکی۔ کمال۔ عمدگی۔ جمع۔ فضائل۔
فضیلت - (ف) فضیلت (ع) - (۱) مہمت] بزرگی۔ برتری۔ فوقیت (۲) علم و فضل (۳) نیکی۔ کمال۔ عمدگی۔ جمع۔ فضائل۔
فضیلت - (ف) فضیلت (ع) - (۱) مہمت] بزرگی۔ برتری۔ فوقیت (۲) علم و فضل (۳) نیکی۔ کمال۔ عمدگی۔ جمع۔ فضائل۔
فضیلت - (ف) فضیلت (ع) - (۱) مہمت] بزرگی۔ برتری۔ فوقیت (۲) علم و فضل (۳) نیکی۔ کمال۔ عمدگی۔ جمع۔ فضائل۔
فضیلت - (ف) فضیلت (ع) - (۱) مہمت] بزرگی۔ برتری۔ فوقیت (۲) علم و فضل (۳) نیکی۔ کمال۔ عمدگی۔ جمع۔ فضائل۔
فضیلت - (ف) فضیلت (ع) - (۱) مہمت] بزرگی۔ برتری۔ فوقیت (۲) علم و فضل (۳) نیکی۔ کمال۔ عمدگی۔ جمع۔ فضائل۔
فضیلت - (ف) فضیلت (ع) - (۱) مہمت] بزرگی۔ برتری۔ فوقیت (۲) علم و فضل (۳) نیکی۔ کمال۔ عمدگی۔ جمع۔ فضائل۔

ف - ط

فطانت - (ف) طانت (ع) - (۱) مہمت] ذہانت۔ عقل مندی۔ دانائی۔
فطر - (ع) - (۱) مذ] روزہ کھولنا۔ افطار۔
فطرت - (ف) طرت (ع) - (۱) مہمت] قدرت۔ خلقت۔ پیدائش (۲) خمیر۔ اسل (۳) عقل مندی۔ ہوشیاری۔ (۴) فریب۔ چالاکی۔ (۵) سازش۔ ملی جھگڑ (۶) فتنہ انگیزی۔
فطرت کرنا - (ع) - (۱) محاورہ] شرارت کرنا۔ (۲) چالاک کرنا۔
فطرت لڑانا - (ع) - (۱) محاورہ] چال چلنا۔ (۲) سازش کرنا۔ (۳) چالاک کرنا۔ شرارت کرنا۔

فعل - (فعل - لی) (ع. ص) فعل سے منسوب - عملی -
(فعل - یا) (اگر صفت) - مکار - فہمی -

فقہ (فقہ) بتانا - فقہ بنانا - فقہ گھڑنا - (۱ - محاورہ) کئی
جھوٹی بات بنالینا - دھوکا دینا -

فقہ بندی - (ت - ا) درت) تک بندی -

فقہ جڑنا - (۱ - محاورہ) آواز کتنا -

فقہ (فقہ) (جڑنا) - (تشریحات) - (۱ - محاورہ) جھوٹی بات بنا کے کہنا -

فقہ (فقہ) (جست) کرنا - (۱ - محاورہ) آواز نکلتا - طعنہ دینا -

فقہ (فقہ) (جیل جانا) - (۱ - محاورہ) جھوٹی بات کا اثر کرنا -

فقہ (جیلنا) جھوڑنا - (۱ - محاورہ) (۱) دھوکا دینا - فریب دینا - شگوفہ پھوڑنا -
(۲) جھوٹی بات یا فریب کار کرنا -

فقہ دینا - (۱ - محاورہ) جھانڈنا - دم دینا - چال چلنا -

فقہوں (فقہ) میں آنا - (۱ - محاورہ) باتوں میں آنا - دھوکا کھانا -
فریب میں آنا -

فقہے بازی سے (۱ - مت) مذاق - بچھے جست کرنا - آواز سے -

فقہے بازیوں کرنا - (۱ - محاورہ) باتیں بنانا - دھوکے دینا -

فقہے جست کرنا - (۱ - محاورہ) آواز سے کتنا مذاق کرنا -

فقہے ڈھالنا - فقہے سنانا - فقہے کہنا - (۱ - محاورہ)
آواز سے کتنا طعنہ دینا -

فقہے ٹھکانا - (۱ - محاورہ) پھینکی ہوئی بات کہنا - آواز سے کتنا -

فقہے میں آجانا - (۱ - محاورہ) دھوکے میں آنا - چال میں آنا -

فقہے میں لگانا - (۱ - محاورہ) فریب میں پھینکانا - چال بازی کرنا -

فقط (ف - ق) (ع - ص) (۱) صرف - تنہا - اکٹلا - بڑا - محض (۲) اس حوالہ ختم شد -

فقط تعویذ سے کام نہیں لگتا بلکہ فریب بھی چاہیے (۱ - مقولہ)
محض دعاؤں پر سیروس نہیں کرتا چاہیے - بلکہ حصول مقصد کے لیے
کوشش بھی لازمی ہے -

فقہ (ف - ق) (ع - ا) (۱ - مت) (۱) واقعت - علم (۲) احکام شریعت کی معلومات -
علم دین شریعت کا علم -

فقہا - (ت - ق) ہا (ع - ا) (۱ - مذ) فقہ کی جمع - علم دین کے جہتے والے -
علمائے دین -

فقہ (ف - ق) (ت - ا) (ع - ص) (۱) نایاب - معدوم -

فقہ المثال - جس کی مثال نہ ہو بے مثل - لاتاقی - لا جواب - بے نظیر -

فقہ (ف - ق) (ع - ا) (۱ - مذ) گدا - بھکاری - منگتا - (۲) درویش - قلندر - بندہ پرست
(۳) غریب - محتاج (۴) شریعت اسلامی کے رد سے وہ شخص جس کے پاس
صرف کھانا کا کھانا ہو - فقہ -

فقہ اپنی عملی ہی میں مست ہے - (۱ - مت) (۲) غریب آدمی تھوڑے ہی
سالان میں غریب ہے -

فقہ بنا دینا - فقہ کر دینا - (۱ - محاورہ) مفلس بنا دینا - ٹوٹ لینا -

فقہ بنانا - (۱ - محاورہ) محتاج ہونا - فقہی اختیار کرنا - محرم میں بچوں کو فقہ
لباس پہنانا -

فقہ خانہ - (ع - ت) (۱ - مذ) فقہ کا گھر - عاجزی کے طور پر اپنے مکان
کو بھی کہا جاتا ہے -

ف - غ

فغان (ف - غ) (ع - ا) (۱ - مذ) شور - غوغا - واویلا - نالہ - فریاد -
آہ و زاری -

فغانی (ف - غ) (ت - ی) (ف - ص) فریاد کرنے والا -

فغفور (ع - ا) (ف - ا) (۱ - مذ) شاہان مین کا لقب -

ف - ف

ففت (ف - ف) (مت) بچہ بچہ

فقہہ کا لفظ (Fifth Column) (انگ - ۱ - مذ) ہندوستان

فلک جوائے وطن میں رہ کر دشمن کی مدد کرے -

فقہ (ف - ف) (ف - ر) (۱ - مذ) (۱) جھاگ جھاگ ہونا -
فقہ (ف - ف) (۱ - محاورہ) رُوں بکھڑ ہونا - جھاگ جانا -

ف - ق

فقی (ع - ص) (ع - ص) خوف یا حیرت سے چہرے کی رنگت سفید پڑ جانا -
زرد ہو جانا - (۳) آنا (۴) حیران و پریشان - ہکا بکا -

فقی (ف - ق) (ع - ا) (۱ - محاورہ) (۱) چہرے کا رنگ اڑ جانا -
حیران و پریشان ہو جانا - رنگ رہ جانا - (۲) آنا ہونا -

فقہدان (ف - ق) (ع - ا) (۱ - مذ) (۱) گم کرنا - بھولنا - بھول - مرکب میں
عدم دنیست کے معنوں میں آتا ہے جیسے فقہدان علم -

فقہ (ع - ا) (۱ - مذ) (۱) قلمندری - درویشی (۲) محتاجی - مفلسی -

فقہ و فاقہ - (ع - ا) (۱ - مذ) غیبی - مفلسی - بچل -

فقہ (ف - ق) (ع - ا) (۱ - مذ) فقہ کی جمع بہت سے فقہ -

فقہوں میں آنا - (۱ - محاورہ) چال میں آنا -

فقہوں میں اُترانا - (۱ - محاورہ) دھوکا دینا - فریب دینا - بے وقوف
بنانا - باتوں میں ٹالنا -

فقہ (ف - ق) (ع - ا) (۱ - مذ) (۱) رٹھ کی ہڈی - عمارت کا ٹکڑا - کلام جملہ - (۳)
دم - جھانسا - دھوکا جمع - فقرت -

فقہ (فقہ) (ع - ا) (۱ - ص) (۱) دھوکے باز - عیار - دغا باز -
چال باز -

فیر دوست - (ع. ف. صف. غریبوں سے محبت کرنے والا۔
 فیر رابہ ماجد اور جہ کار۔ (ن. مقولہ) فیر جھکے اور گھٹ میں نہیں بڑتا۔
 فیر کا پوت چلن امیروں کے - (۱۔ مثل) غریبی میں رہ کر بھی شان و
 شوکت دکھانا۔
 فیر کا گھر بڑا ہے - (۱۔ مثل) فیر کو سب کچھ حاصل ہوتا ہے۔ چونکہ اس
 کا خدا پر بھروسہ ہوتا ہے۔
 فیر کو گھل ہی دو سالہ ہے - (۱۔ مثل) غریب کو جو میسر آجائے وہی
 غنیمت ہے۔
 فیر کھلانا - (۱۔ محاورہ) مراد پوری ہونے پر غریبوں کو کھانا کھلانا۔
 فیر کی زبان کس نے کیلی ہے - (۱۔ مثل) فیر بغیر کسی کی پردہ کیے
 جو جی میں آئے کہہ دیتا ہے۔
 فیر کی صدرا - (۱۔ مثل) آواز جو فیر مانگنے کے لیے دیتے ہیں۔
 فیر کی صورت (ہی) سوال ہے - (۱۔ مثل) محتاج آدمی کے حیرے
 سے ہی غیبی برستی ہے۔
 فیر ہو جانا - (۱۔ غیری اختیار کرنا) تارک الدنیا ہو جانا - (۲۔ محتاج ہو جانا۔
 مفلس ہو جانا۔

فیر مزاج - اور تفنن طبع کی باتیں - دل چسپ پٹیکے - اٹھنے
 ہنسانے کی باتیں - مفاہیات۔
 فیکر - (ع. ۱۔ مذکر مث) سوچ بچار - اندیشہ - خیال - وہیان
 (۳) رنج - غم - غور - تاثر - (۵) پردہ - حاجت - (۶) تدبیر -
 ٹھکانہ - جمع - انکار۔
 فیکر آڑنا - (۱۔ محاورہ) ایک ایک کوئی پریشان کی بات ہو جانا۔
 فیکر جھننا - (۱۔ محاورہ) تدبیر سمجھ بڑانا۔
 فیکر ڈورانا - (۱۔ محاورہ) سوچنا - بچار کرنا۔
 فیکر رسا - سینے والی عقل - اعلیٰ عقل - سوچ بوجھ۔
 فیکر زاہد دیگر سودائے عاشق دیگر اوست - (ن. مثل) ہر شخص
 اپنی اپنی دھن میں لگا ہوا ہے۔
 فیکر سخن - (ع. ف. ن. ۱۔ مذ) وہ فرد تامل جو شخص کہنے کے واسطے ہوتا ہے
 فیکر فردا - (ع. ف. ن. ۱۔ مت) مستقبل کا خیال (۲) قیامت کی فکر
 فیکر کرنا - (م. مرکب) (۱) سوچنا بچار کرنا (۲) رنج کرنا۔
 فیکر لاحق ہونا - (۱۔ محاورہ) اندیشہ ہونا - احتمال ہونا۔
 فیکر معاش (معیشت) - (ن. ۱۔ مث) روزی کارود - کھانے
 کی سوچ۔

فیرانہ - (ن. ف. ق. ۱۔ راز) (ن. صف) (۱) درویشوں کی مانند - فیروں
 کی مانند - (۲) وہ زمین جو فقرا کے گراسے کے واسطے وقت
 کر دی جائے
 فیرانی - (ن. ف. ق. ۱۔ راز) (۱۔ مث) بھیک مانگنے والی عورت بھیکان
 محتاج عورت۔
 فیری - (ن. ف. ق. ۱۔ راز) (ع. ۱۔ مث) فیر سے منسوب - غریب - مفلس۔
 محتاجی - درویشی - قندری۔
 فیری اختیار کرنا - (۱۔ محاورہ) فیروں جیسا حال بنانا - فیر ہو جانا۔
 فیری شہ کا رقع بھی ہے - (۱۔ مثل) فیری بڑا پردہ ہے اس جیس میں
 کسی وقت کال نکل آتے ہیں۔
 فیری لٹکا - درویشی چٹکا - سہل علاج آسان نسخہ۔
 فیرہ - (ع. ۱۔ ۱۔ مذ) علم فقہ کا عالم - شرعی مسلوں سے واقف - مفتی دین۔
 جمع - فقہا فقہاں۔

ف۔ ک

فکار - (ن. گار) (ن. صف) زخمی گھال - مجرد - مرکبات کے
 آخر میں آتا ہے جیسے دل فکار - سینہ فکار۔
 فکن - (ن. گن) (ن. صف) افکن کا محض - ڈالنے والا - پھینکنے والا۔
 مرکبات کے آخر میں آتا ہے - جیسے تیر فکن۔

فکارت - (ع. ۱۔ امث) زندہ دل خوش طبع - مزاج - جمع - نکاہت۔
 فکات - (ع. ۱۔ مذ) (۱) دو باہر ملی ہوئی چیزوں کا علیحدہ کرنا جھوڑ دینا۔
 (۲) علم نجومیں ۱۵۹ اصناف جو بڑھنے میں آئے۔
 فکات (اصناف) - (ع. ۱۔ ۱۔ مذ) علامت اصناف یعنی کسرہ چھوڑ دینا جیسے
 صاحب الدینس ب کے کسرے کو چھوڑ کر نرم دیتے ہیں۔
 فکات الرہین - فکات رہن - (ع. ۱۔ ۱۔ مذ) رہن کی ہونی چیز کو چھڑانا۔
 فکات - (ن. گاہت) (ع. ۱۔ ۱۔ مذ) فکارت کی جمع مخرجات

ف - ل

فلاح - (ف - لاح) (رع - ف - مٹ) (۱) بھلائی - نیکی - آسودگی - نجات
سلامتی (۲) عمدگی - خوبی -
فلاح داریں - (رع - ا - مٹ) دو جہان کی بھلائی - دین و دنیا کی بہتری -
فلاح دہاں - (لاح - رع) (۱) مذمہ کا شکر جمع - فلاحین
فلاحی ریاست - (۱) - (مٹ) ایسی حکومت جس میں عوام کو ہر طرح کی بہتر
تیسریوں - جیسے جہان و مال کی حفاظت اور روزگار کا جیسا ہونا -
فلاحیت - (ف - ل - ح - ت) (رع - م - مٹ) زراعت - کاشتکاری کی حیثیت پاڑی
فلاحین - فلاسٹک - (ف - لا - ح - ن) (ف - لا - سٹنگ) (ف - ا - مذکر - مٹ) -
گوپین - وہ رسی کا پھندہ جس میں لکڑے کی تہہ پھینکتے ہیں -
فلا سوفر (Philosopher) (ف - لاس - فر) (انگ - ا - مذ) فلسفی
علم فلسفہ کا جاننے والا (۲) دانش ور -
فلا سوفہ (ف - لا - س - ف) (رع - م - مذ) فلسفی کی جمع - حکماء - (۲) ایک
معبود کا نام -
فلا طونی - (ف - لا - ٹونی) (رع - ص - ف) یونانی فلسفی افلاطون سے منسوب -
فلا طونیت - (رع - ا - مٹ) افلاطون کا وہ فلسفہ جس کے مطابق خیالات
اور نظریات حقیقی وجود رکھتے ہیں اور مادی اشیاء محض اُن کے مظاہر
اور شکل تخلیق ہیں -
فلاکت - (ف - لاکت) (رع - ا - مٹ) خوبی - بخشنی - ناداری - نحوست -
فلاکت زدہ - (ف - ا - ص - ف) مصیبت کا مانا - بدبختی - بد نصیب
فلاکس - (فلکس) (ف - لکس) (انگ - ا - مذ) ایک پھیننے والا پورا جس
کے چھوٹے چھوٹے جھلی طباق نما ہوتے ہیں -
فلا لین - (ف - لا - لین) (ا - ر - ا - مذ) انگریزی لفظ (Flannel)
کا مراد ایک قسم کا روئی دار نرم اونی کپڑا -
فلائن - (ف - لائن) (ا - ر - ا - مذ) مکرر موش آواز کی شکل - شرم گاہ -
فلائن میں ٹھوکتا - (۱) - (مخادرہ) (۱) ذلیل کرنا - رسوا کرنا - بدنام - (۲)
لغت طاعت کرنا
فلاں - (ف - لائن) (رع - ص - ف) شخص غیر معلوم وہ شخص یا چیز جو ذہن میں
ہو مگر زبان سے نہ کہیں -
فلائن بہمان - (رع - ف - ا - مذ) ایسا غرا - اٹکا ڈھکا -
فلاں فلاں - (رع - ف - ا - مذ) لوگ جو ذہن میں ہوں - مگر زبان سے
نام نہ لیا جاوے
فلانا - (ف - لا - ن) (ا - ر - مٹ) (۱) شخص کوئی شخص وہ شخص (۲) بات یا
معانی کی نسبت بھی بولتے ہیں جیسے فلانا کام -
فلانے کی ماں نے شخص کیا بہت بڑا کیا کر کے چھوڑ دیا اور
بھی بڑا کیا - (۱) - (ج - ل) اس کو بولتے ہیں جب کوئی شخص ایک غلطی کی اصلاح
میں دوسری اس سے بڑی غلطی کرے -
فلانی - (ف - لانی) (ا - ر - مٹ) وہ عورت - وہ بات - وہ کام -

فلائنگ کلب (Flying Club) (ف - ل - انگ - ک - ل - ب) (ف - ل - انگ - ک - ل - ب)
(انگ - ا - مذ) ہوائی جہاز اڑانے والوں کا کلب - ہوا بازی کا فن
سکھانے کا ادارہ -
فلٹر - (فلٹر) (ف - لٹر) (انگ - ا - مذ) پانی صاف کرنے
کا آلہ - چھلنی -
فلٹریٹ - (ف - لٹر - زٹ) (رع - ا - مذ - مٹ) فلز کی جمع - وہ معدنی جوہر
جن میں کچھل جانے کی صلاحیت ہے جیسے سونا - چاندی - (Ore)
فلٹری - (ف - لٹر - ری) (رع - ص - ف) معدنی - کانی -
فلٹس - (رع - ا - مذ) (۱) پیسہ - تاپنے کا سیکڑ (۲) ٹھیل کے اوپر کا چھلکا (۳) اجلاس
کا قرض - جمع - فلٹس
فلسفہ - (فل - س - ف) (رع - ا - مذ) علم و حکمت علم موجودات حکمت و دانائی -
فلسفہ بھکار تاپا چھا تھنا - (۱) - (مخادرہ) (۱) بڑھو بڑھ کر بائیں گنا - (۲) دانائی
کا رعب ڈالنا -
فلسفی - (فل - س - ف) (رع - ص - ف) علم فلسفہ جاننے والا - محقق - فلاسفر
جمع - فلاسوف (Philosopher)
فلسفیانہ - (فل - س - ف) (رع - ص - ف) فلسفہ سے متعلق - حکیمانہ -
فلٹس کپ - (فلٹس کپ) (ف - لٹس - کپ) (انگ - ا - مذ)
کاغذ کا ایک ساڑھو تقریباً ساڑھو تیرہ انچ لمبا اور ساڑھو آٹھ انچ
چوڑا ہوتا ہے -
فلش - (فلش) (ف - رش) (انگ - ا - مذ) پانی کا تیز بہاؤ - بدبویا
نالی میں تیز پانی بہا کر صاف کرنا (۲) تاش کا ایک ٹکڑا -
فلفل - (فل - فل) (رع - م - مٹ) مرجع جمع - فلافل -
فلفل دراز - (رع - ف - ا - مذ) لمبی مرجع - گھاٹ -
فلک - (ف - لک) (رع - انٹ) آسمان - گردوں - چرخ -
فلک اساس - آسمان جیسی بنیاد والا - بہت مستحکم - (۲) بلند
اُونچا -
فلک اطلس - فلک اعظم - (رع - ا - مذ) آسمان - جس پر
کوئی ستارہ نہیں -
فلک الافلاک - (رع - ا - مذ) ساتواں آسمان - عرض - کرسی -
فلک بارگاہ - فلک پاکہ - فلک پایہ - (رع - ف - مٹ) -
بلند مرتبہ - عالی رتبہ -
فلک پر چڑھانا - (۱) - (مخادرہ) بہت زیادہ تعریف کرنا - بہت
خوشامد کرنا -
فلک پروماخ (رہنما) ہونا - (۱) - (مخادرہ) مغرور و مکتبر ہونا -
کسی کو اپنے برابر دیکھنا -
فلک پر چھنونا - (۱) - (مخادرہ) مغرور ہونا - اترنا -
فلک پرواز - فلک پیمانہ - فلک تازہ - (رع - ف - مٹ) آسمان
پر اڑانے والا - آسمان تک پہنچنے والا -
فلک پیر - (رع - ف - ا - مذ) بوڑھا آسمان - آسمان جو مدت سے
موجود ہے -

ف - م

فم - (ع۔ ا۔ مذ) مُنہ۔ وہیں۔
 فم - (ع۔ ا۔ مذ) بچہ دان کا مُنہ۔
 فم - (ع۔ ا۔ مذ) معدے کا مُنہ۔ کونڈی۔
 فم - (ع۔ ا۔ مذ) سات دن میں قرآن مجید اس طرح ختم کرنا کہ پہلے دن سورۃ فاتحہ سے مادہ تک۔ دوسرے دن سورۃ بقرہ تک۔ تیسرے دن سورۃ بنی اسرائیل تک۔ چوتھے دن سورۃ شورا تک۔ پانچویں دن سورۃ العنکبوت تک۔ چھٹے دن سورۃ قاف تک ساتویں دن آخر تک ان سورتوں کے ابتدائی حرف کو ملا کر فی بشرق بنایا ہے۔

ف - ن

فن - (ع۔ ا۔ مذ) (۱) ہنر۔ کاریگری۔ مگن۔ طرز۔ ڈھنگ (۲) مکر۔ فریب۔ (۳) دانش۔ رائے۔ کشتی کا داؤں۔ کرتب۔ (۴) قسم۔ شاخ۔
 فن - (ع۔ ا۔ مذ) (۱) فن کی خدمت کرتے ہوئے۔ فن کو کسی مقصد سے وابستہ کرنا۔
 فن شریف - (ع۔ ا۔ مذ) معزز ہنر یا پیشہ۔
 فن کاری - ہنرمند۔ کاریگر۔ تحقیق کام کرنے والا۔ ہوشیار۔
 فن کاری - ہنرمندی۔ کاریگری۔
 فنا - (ع۔ ا۔ مذ) (۱) امیت۔ موت۔ ہلاکت۔ بربادی (۲) نابود۔ نیست (۳) اصطلاح تصوف میں محدث اور قدم کے فرق کا دوز کرنا۔
 فنائی الرسول - (ع۔ ا۔ مذ) فقر کا وہ مرتبہ جس میں سالک اجتماعی رسول کو اپنی طبیعت تلافی پاتا ہے۔
 فنائی اشع - (ع۔ ا۔ مذ) فقر کا ایک مرتبہ جس میں مرید ہر وقت اپنے مرشد کے خیال میں ڈوبا رہتا ہے۔
 فنائی الفرج - (ع۔ ا۔ مذ) ہر وقت غورتوں کے پیچھے لگا رہنے والا۔
 فنائی اللہ - (ع۔ ا۔ مذ) خدا تعالیٰ کی محبت اور معرفت میں ڈوب جانے کا مرتبہ۔
 فنا کرنا - (۱) محاورہ) کھڑا برباد کرنا۔ مٹانا۔ نیست و نابود کرنا۔
 فنا ہو جانا - (۱) محاورہ) (۱) مٹ جانا۔ (۲) اکٹھا ہونا۔ عاشق ہو جانا۔
 فنانس - (Finance) (ف۔ ن۔ ن۔ ا۔ مذ) (۱) مذہب، مال گزار (۲) ذرا لاکھ (۳) مالیات۔ خزانہ۔
 فنانشل - (Financial) (ف۔ ن۔ ن۔ ا۔ مذ) (۱) مذہب، مال گزار کے خزانہ یا آمدنی سے متعلق۔
 فنجان - (فنجان) (ع۔ ا۔ مذ) چھٹی پیالی جس میں قوم پیتے ہیں۔
 فنڈ - (ع۔ ا۔ مذ) (۱) رقم۔ (۲) رقم۔ (۳) رقم۔

فلک ٹوٹ کرنا - (۱) محاورہ) سمت مصیبت آنا۔
 فلک ٹوٹنا - (۱) محاورہ) غضب آنا۔ مصیبت آنا۔
 فلک جناب - (ع۔ صفت) عالی مرتبہ۔
 فلک زردہ لب - (ع۔ صفت) افسوس۔ محتاج۔ مصیبت کا مارا ہوا۔
 فلک تسمیر - (ع۔ صفت) بھنگا۔
 فلک شعبہ باز - (ع۔ صفت) شہدے دکھانے والا آسمان۔
 فلک شکوہ - (ع۔ صفت) فلک مرتبہ۔ فلک رفعت۔ (ع۔ صفت) آسمان جیسی شان و شوکت اور بلندی والا بلند مرتبہ۔
 فلک فرسا - (ع۔ صفت) آسمان پر سینچنے والی آہ۔
 فلک قدر - (ع۔ صفت) عالی قدر۔
 فلک کا ستارا - (ع۔ صفت) مصیبت زدہ۔ بد قسمت۔ کم بخت۔
 فلک کو ٹرا معلوم ہونا - (۱) محاورہ) شاعر از خیال کہ آسمان لوگوں کو خوش نہیں دیکھ سکتا۔ مصیبت وہی نازل کرتا ہے۔
 فلک کو خبر نہ ہونا - (۱) محاورہ) کسی کو علم نہ ہونا، نہایت بے خبر ہونا۔
 فلکی - (ع۔ ا۔ مذ) (۱) آسمان۔ (۲) سماوی۔ طوری۔
 فلکیات - (ع۔ ا۔ مذ) (۱) آسمان کے متعلق چیزیں (۲) ایک علم جس میں آسمان اور اس کی موجودات پر بحث ہے۔
 فلم (Film) - (ع۔ ا۔ مذ) (۱) جھلی۔ (۲) وہ تصویر جو پوسے پر چلتی آدھائی دہائی ہے۔ (۳) سیاہ جھلی جسے کمرے میں ڈال کر تصویر آرتے ہیں۔
 فلم شٹار - (ع۔ ا۔ مذ) سینما کے مشہور اداکار۔
 فلمی - (ع۔ ا۔ مذ) (۱) فلم کے متعلق۔
 فلو - (Flue) (ع۔ ا۔ مذ) (۱) آئل ٹرنز کا مختلف ایک قسم کا دباؤ نزل۔
 فلور - (Flour) (ع۔ ا۔ مذ) (۱) آٹا۔
 فلور مل - (Flour Mill) (ع۔ ا۔ مذ) آٹا پیسنے کی چکی۔
 فلور - (Floor) (ع۔ ا۔ مذ) (۱) سطح۔ منزل۔
 فلوس - (E. L. F.) (ع۔ ا۔ مذ) (۱) فلوس کی جمع (۲) پیسے (۳) چھلکے۔
 فلولوجی - (Philology) (ع۔ ا۔ مذ) (۱) لٹریچر کی تاریخ۔
 فلوجی - (ع۔ ا۔ مذ) (۱) فلوجی کا علم۔ صرف و نحو اور زبانوں سے واقف ہونے کا علم۔
 فلہذا - (ع۔ صفت) (۱) بس اس لیے۔
 فلہتیر - (ع۔ ا۔ مذ) (۱) آٹا۔ (۲) آٹا کی تہی۔ (۳) دیکھیے قندیل۔
 فلہتیر دکھانا - (۱) محاورہ) (۱) آٹا سے دار بندوق یا توپ چلاتا (۲) آگ لگانا۔
 فلہتیر دینا - (۱) محاورہ) (۱) آگ زدش کرنا (۲) توپ یا بندوق چلاتا (۳) آسیب زدہ کو تہی کی دھون دینا۔
 فلہتیر نہکھانا - (۱) محاورہ) (۱) توپ یا بندوق کی دھون دینا۔
 فلہٹ - (Flat) (ع۔ ا۔ مذ) (۱) (۱) لیٹ (۲) آٹا۔ (۳) (۱) عمارت کی ایک منزل پر رہائشی کمرے۔ (۲) چپٹا۔ سپاٹ۔

فہم (جمع) - (ع. ا. م. ث) سمجھ، دریافت، عقل، دانائی، شعور، وقوت۔
 فہم کا مفہم - (ع. ا. م. ث) نامکمل عقل، ناقص رائے۔
 فہما کش - (قذ. ما. ش. گ.) (ف. ا. م. ث) جہالت، نصیحت، تلقین سمجھانا۔
 فہم کرنا۔
 فہمائش کرنا - (ع. ا. م. ث) سمجھانا، جمانا، تہمید کرنا۔
 فہمیدہ (ذکر، میدہ) (ف. ا. م. ث) سمجھ، عقل، رائے۔
 فہمیدہ حساب - (ف. ا. م. ث) حساب کا سمجھنا۔
 فہمیدگی - (ذکر، میدہ، گ.) (ف. ا. م. ث) سمجھ بوجھ، دانائی۔
 فہمیدہ - (ذکر، می، وہ) (ف. ا. م. ث) صفت (صفت) سمجھ دار، ہوشیار، دانا۔
 جمع - فہمیدگی۔
 فہم المراءد - (ف. ہ. م. ڈ. ر. ا. د) (ع. ا. م. ث) یہی اصل مراد ہے۔ یہی مقصد ہے۔
 فہیم - (ف. ہ. م.) (ف. ا. م. ث) صفت (صفت) عقل مند، دانایا، سمجھ دار

ف ر ی

فنی - (ع. ح. ر. ف. ج. ا. د) درمیان، بیچ، بھیترا - (ع. ا. م. ث) ساتھ۔ (ع. ا. م. ث) ہر ایک۔
 فنی الاصل - (ع. ا. م. ث) متعلق، حقیقت میں۔
 فنی البیدریہ - (ع. ح. م. ث) متعلق، خدان، فی الہمہ - بے سوچے۔
 فنی الجملہ - (ع. ح. م. ث) متعلق، فعل، (ع. ا. م. ث) القصد، الغرض، حاصل کلام، قصہ مختصر۔ (ع. ا. م. ث) ٹھنڈا، ٹیڑھی۔
 فنی الحال - (ع. ح. م. ث) متعلق، فعل، اب، ابھی، اسی وقت، سردست، بالافعل۔
 فنی الحقیقت - (ع. ح. م. ث) متعلق، فعل، دراصل، واقعی، بیشک، حقیقتاً۔
 فنی القور - (ع. ح. م. ث) متعلق، فعل، جلد ہی، شبانہ، جرت۔
 فنی التسل - (ع. ح. م. ث) متعلق، فعل، مثل کے طہر پر۔
 فنی النار و الشفر، جانا - (ع. ا. م. ث) دوزخ کی آگ میں پڑنا۔ جنانا کہاب ہونا۔ جتنا۔

فنی الواقع - (ع. ح. م. ث) متعلق، فعل، دیکھنے، فی الحقیقت، دراصل۔
 فنی الوقت - (ع. ح. م. ث) متعلق، فعل، خدان، اسی وقت۔
 فنی امان اللہ - (ع. ح. م. ث) دعوے، نیک جو کسی عذر پرستی کو رخصت کرتے وقت کہتے ہیں خدا کی امان میں خدا حافظ، اللہ رکھتی۔
 فنی زمانہ - (ع. ح. م. ث) متعلق، فعل، اس زمانے میں، آجکل، ان دنوں۔
 فنی سبیل اللہ - (ع. ح. م. ث) متعلق، فعل، (ع. ا. م. ث) خدان راہ میں (ع. ا. م. ث) خدان کے لیے (ع. ا. م. ث) وقت۔
 فنی صدقہ - (ع. ح. م. ث) متعلق، فعل، ہر شے پر پیکھو، پیچھے۔
 فنی رس - (ع. ح. م. ث) متعلق، فعل، ہر آدمی کے لیے، آدمی پیچھے۔
 فنی کل وجوہ - (ع. ح. م. ث) متعلق، فعل، ہر حال، ہر طرح۔

فوق رکھنا - (ع. ا. م. ث) ترجیح دینا، شرف رکھنا۔
 فوق لے جانا - (ع. ا. م. ث) سبقت لے جانا، بڑھ جانا۔
 فوقانی (ع. ا. م. ث) (ع. ح. م. ث) اوپر کا، بالائی۔
 فوقیت - (ع. ا. م. ث) (ع. ح. م. ث) برتری، ترجیح، سبقت، امتیاز (ع. ا. م. ث) شان، قدر۔
 فوقیت حاصل ہونا - (ع. ا. م. ث) بڑھ جانا، ممتاز ہونا، عظمت پانا۔
 فوقیت لے جانا - (ع. ا. م. ث) بڑھ جانا، بازسی لے جانا، سبقت لے جانا۔

فوکس - (Focus) (ف. ک. س.) (ع. ا. م. ث) نقطہ ارتعاش، ماسک۔
 فول - (Fool) (ف. ول) صفت، بے وقوف، ہنسی۔
 فولاد (ع. ا. م. ث) (ع. ا. م. ث) نہایت سخت اور اعلیٰ قسم کا لوہا۔ سہاوت (ع. ا. م. ث) سخت، کڑا، مضبوط۔
 فولاد کا دل - (ع. ا. م. ث) نہایت سخت دل۔
 فولاد کا ہاتھ - فولاد سی ہاتھ - (ع. ا. م. ث) سخت اور مضبوط ہاتھ۔
 فولادی بلاؤں - (ع. ا. م. ث) صفت، فولاد کا بنا ہوا (ع. ا. م. ث) بہت سخت، بہت مضبوط (ع. ا. م. ث) بڑی چھڑ، جھانے کی کڑی، نیزے کا بائس۔
 فولڈر - (Folder) (ف. ول) (ع. ا. م. ث) آٹک کا غذا کرتے کنسنے والا آلہ۔

فولیو - (Folio) (ف. ولی) (ع. ا. م. ث) کاغذ کا ورق جس پر ایک ہی طرف لکھا ہو۔
 فولن - (ع. ا. م. ث) سانبلی کی سبکداز۔
 فون - (Phone) (ف. ون) (ع. ا. م. ث) فون کا مختص۔
 فونوگراف - (Phonograph) (ف. ون. ل. گ. ر. ا. ف.) (ع. ا. م. ث) آواز کی صورت نگار، ایک آلہ جس کے ذریعہ آوازیں خود بخود قلم بند ہوتی ہیں۔ گراموفون۔
 فونوگرام - (Phonogram) (ف. ون. گ. ر. ا. م.) (ع. ا. م. ث) آواز کی صورت یا آواز کی صورت نگار - (ع. ا. م. ث) صوت بندی۔
 فونیٹیک - (Phonetician) (ف. ون. ٹ. ٹ. ٹ. ٹ.) (ع. ا. م. ث) صفت، بچہ و آدم کے خوب مشرق ساحل کے قدیم باشندے جنہوں نے رسم الخط ایجاد کیا۔

ف ہ

فہارس - (ع. ا. م. ث) فہرست کی جمع۔
 فہامہ - (ع. ا. م. ث) عالمانہ، بہت سمجھدار، دانایا، عقل مند۔
 فہرست - (ف. ہ. ر. س.) (ع. ا. م. ث) فہرست، دراصل (ع. ا. م. ث) فہرستوں کی تفصیل۔
 فہرست میں نام (چچرطہانا) داخل کرنا - (ع. ا. م. ث) حواشی (ع. ا. م. ث) میں نام درج کرنا۔

فیلت (Felt) (انگ۔ مذ) ایک روئیں دل کپڑا جو اون کو موڑ اور
 ڈھا کرتا رکھا جاتا ہے (۳) عمدے کی ٹپلی۔
 فییلڈ (Field) (انگ۔ ادمت) میدان۔ میدان جنگ۔
 فییلڈ بک (Field Book) (انگ۔ ادمت) ایک کتاب جس
 میں ہدایات کے مطابق کھیتوں کی پیمائش کی جاتی ہے۔
 فییلڈ مارشل (Field Marshal) (انگ۔ ادمت) سپر سالار افواج
 فوج کا سب سے اعلیٰ عہدہ اعزاز۔
 فییلڈر (Fielder) (فیلڈر) (انگ۔ ادمت) کرکٹ کے کھیل میں وہ
 کھلاڑی جو گیند روک کر بال یا وکٹ کی طرف پھینکے۔
 فییلڈنگ (Fielding) (فیلڈنگ) (انگ۔ ادمت) کرکٹ میں
 گیند کو پھرتی سے روکنے کا ہنر۔
 فیلسوف (Philosophy) (فیل۔ سوٹ) (انگ۔ ادمت) حکیم دانش مند۔ عالم۔ فاضل (۳)
 مکار۔ فزبی۔ دغا باز۔
 فیلسوفی (Philosophy) (فیل۔ سوٹ) (انگ۔ ادمت) فضول غرضی۔ نمود و نمائش (۲)
 عیاری۔ چالاک۔ شرارت۔
 فیلو (Fellow) (فیلو) (انگ۔ ادمت) (۱) آدمی۔ فرد (۲) ساتھی۔
 ہم بولی۔ ہمسر (۳) سوسائٹی یا یونیورسٹی کا ممبر۔
 فیلو شپ (Fellowship) (انگ۔ ادمت) کسی تعلیمی ادارے
 انجمن یا بھروسے کی ممتاز رکنیت (۲) تعلیمی ادارے کے فیلو کا مشاہدہ۔

فیلم (Film) (انگ۔ مذ) شطرنج کا ایک بہرہ جوڑ چھاپتا ہے۔
 فیل فیلیا۔ فیل یا یا۔ رتے۔ لی، (تختے۔ لی، یا، (تختے۔ لی، یا، (یا، (آر صفت)
 مکار۔ فزبی۔ دغا باز۔
 فیملی (Family) (فامیلی) (انگ۔ ادمت) (۱) خاندان۔
 نسب۔ (۲) اہل و عیال۔ یومی پتے۔
 فیملی پلاننگ (Family Planning) (فامیلی پلاننگ) (انگ۔ ادمت) خاندانی
 منصوبہ بندی۔
 فین (Fan) (انگ۔ مذ) پنکھا۔ بجلی کا پنکھا۔
 فینائل (Phenyl) (انگ۔ ادمت) ایک جراثیم کش دوا۔
 فینسی (Fancy) (فینسی) (انگ۔ ادمت) عمدہ۔ خوبصورت
 فینسی بال فینسی ڈانس (Fancy Ball) (فینسی بال فینسی ڈانس)
 (انگ۔ ادمت) مغربی رقص کی تقریب جس میں لوگ سوانگ بھر کر شریک ہوتے ہیں
 فیوڈل (Feudal) (انگ۔ ادمت) (۱) اڈ۔ (۲) (انگ۔ ادمت) صفت اہلگردی نظام سے متعلق
 قرون وسطیٰ کا ماساشی اور معاشرتی نظام۔ بڑے زمینداروں اور
 جاگیرداروں سے متعلق۔
 فیوز (Fuse) (انگ۔ ادمت) (۱) (انگ۔ ادمت) تیز حرارت سے پگھلنا یا جلا جانا (۲)
 فیتل۔ تپتی جیسے آتش گیر مادے میں جھگو کر جلا یا جاتا ہے۔
 فیوژن (Fusion) (انگ۔ ادمت) (۱) فیوژن کی جمع (۲) فائدے (۳) نیکیاں (۴) خوشخوش
 فیوژن (Fusion) (انگ۔ ادمت) (۱) فیوژن (۲) اس پر اعتراض ہے۔ یہ عمل نظر ہے۔

ق

آفات، (ع۔ مذ) اُردو کا ستائیسواں۔ فارسی کا چوبیسواں اور عربی کا اکیسواں حرف۔ حساب الجبر میں اس کے ستو عدد مقرر ہیں۔ عربی میں یہ قری حرف ہے۔ اس کے پہلے 'ا' لے کر آئے گا تو 'ق' سلام، اپنی آواز دے گا جیسے القمر۔

ق ۱

قابل سزایا۔ (ف۔ ۱۔ صفت) سزا کا مستوجب۔
قابل سماعت۔ (۱۱۔ صفت) سننے کے لائق۔ (۱۲) وہ مقدمہ جو اُردوئے قانون کسی عدالت کے حصّہ اختیار میں ہو۔

قابل غور۔ (ع۔ ف۔ صفت) سوچنے کے لائق۔ توجہ کرنے کے قابل۔
قابل کرنا۔ (مضمرکب) لائق بنانا۔ شائستگی کرنا۔ کُن سگھانا۔ ہنرمند بنانا۔
قابل مواخذہ۔ (ع۔ صفت) مجاہدگی یا گرفت کے مطابق۔
قابل نکاح۔ (ع۔ صفت) نکاح کے لائق۔ جوان۔ بالغ۔ بالغہ۔
قابل ہونا۔ (مضمرکب) لائق ہونا۔ تجربہ کار ہونا۔ ہوشیار ہونا۔

قابل یقین۔ (ف۔ ۱۔ صفت) جس پر یقین کیا جاسکے
قابله۔ (ق۔ ب۔ لہ۔ ع۔ صفت) (۱) ہوشیار اور لائق عورت (۲) (مؤنث) بچہ پڑھنے والی عورت۔ دانائی۔

قابلیت۔ (ق۔ ب۔ لی۔ یت۔ ع۔ ۱۔ صفت) (۱) لیاقت۔ سلیقہ۔ استعداد (۲) مناسبت۔ مادہ۔

قابلیت پیدا کرنا۔ (مضمرکب) لیاقت، بہم پہنچانا۔ استعداد حاصل کرنا۔

قابلیت ہونا۔ (مضمرکب) لیاقت ہونا۔ مادہ ہونا۔ استعداد ہونا۔
قلوب۔ (ق۔ ب۔ لہ۔ ع۔ ۱۔ صفت) (۱) موخ۔ فرصت (۲) زور پیس۔ طاقت (۳) حکم۔ اختیار۔ (۴) رسائی پہنچنا۔

قابو پانا۔ (۱) محاذہ) قدرت پانا۔ (۲) موخ پانا۔ اختیار پانا۔
قابو چڑھنا۔ (۱) محاذہ) کسی کے بس میں مہجنا۔

قابو چڑھنا۔ قابو چلانا۔ بس میں آنا۔ اختیار میں آنا۔ ہتھے چڑھنا۔
قابو چلانا۔ (۱) محاذہ) حکم چلانا۔ قدرت دکھانا۔

قابو سے باہر ہونا۔ (۱) محاذہ) قدرت سے باہر ہونا۔ آپسے سے باہر ہونا۔

قابو سے جمانا۔ (۱) محاذہ) اختیار سے باہر ہونا۔ رہا چلنا۔ آپسے سے باہر ہونا۔ (۳) داؤں سے نکلنا۔ گھات سے نکلنا۔

قابو کر لینا۔ (۱) محاذہ) قابو کرنا۔ بس میں کرنا۔ منسوب کرنا۔
قابو لگنا۔ (۱) محاذہ) قابو ہونا۔ موقع ملنا۔

قابو میں رکھنا۔ (۱) محاذہ) بس میں رکھنا۔ منسوب رکھنا۔
قابو میں کرنا۔ (۱) محاذہ) قابو میں لانا۔ اپنے اختیار میں کرنا۔ منسوب کرنا۔

قابو میں لگنا۔ (۱) محاذہ) گھات میں لگنا۔
قابو میں ہونا۔ (۱) محاذہ) بس میں ہونا۔

قابو میں نہ رہنا۔ (۱) محاذہ) اختیار میں نہ رہنا۔ بس میں رہنا۔

قار۔ (اُردو۔ صفت) کوسے کی آواز۔ کائیں۔ کائیں۔
قائن۔ (ق۔ ت۔ ک۔ صفت) (۱) بہت بڑا عادل۔ سخی اور عادل بادشاہ۔ (۲) بادشاہ چین اور شاہ ترکستان کا لقب (۳) وہ ترکی خطاب جو شہنشاہ یا حاکم اعلیٰ کو دیا جائے۔ جو سب سے پہلے چنگیز خان کے بیٹے آگتائی کو دیا گیا تھا۔

قائنی۔ (ق۔ ت۔ ک۔ صفت) (۱) قائن سے منسوب۔ (۲) ایک مشہور ایرانی شاعر کا تخلص۔

قائب۔ (ق۔ ت۔ ک۔ صفت) (۱) بڑی رکابی۔ تھال۔
قائب۔ (ع۔ ۱۔ صفت) مکان کی موٹھ سے گوشے تک کا فاصلہ۔ ایک ہاتھ کا فاصلہ۔
قائب قوسین۔ (۱) درہا تھکا فاصلہ (۲) دو گمانوں کا فاصلہ۔ (۳) نہایت قریب۔ (۴) (عجائب) ابروئے دلدار۔

قائبض۔ (ق۔ ت۔ ک۔ صفت) (۱) صفت۔ (۲) ا۔ مذ) قبضہ کرنے والا۔ (۳) دخیل جیسے مکان کا قائبض (۴) درہ چیز جو قبض کرے۔

قائبض ارواح۔ (ع۔ صفت) روحوں کو قبض کرتے والا۔ ملک الموت عزرائیل۔

قائبض چین سیاتی۔ (ع۔ ۱۔ مذ) عمر بھر کے لیے قبضہ رکھنے والا۔
قائبض شکمی۔ (ع۔ ف۔ صفت) درمیان قائبض۔

قابل۔ (ق۔ ب۔ لہ۔ ع۔ ۱۔ صفت) (۱) لائق۔ اہل۔ سزاوار (۲) دانہ عقلمند۔ ہوشیار۔ تجربہ کار۔ استعداد رکھنے والا۔ (۳) عالم۔ فاضل (۴) لائق۔

قابل ادا۔ (ع۔ ف۔ صفت) ادا کرنے کے لائق۔

قابل اعتبار۔ (اعتماد)۔ (ع۔ ف۔ صفت) معتبر۔ مجرور سے کے لائق۔
قابل اعتراض۔ (ع۔ ف۔ صفت) اعتراض کے لائق۔ بے جا۔ قبیح۔

قابل التفات۔ (ع۔ ف۔ صفت) توجہ کے لائق۔
قابل انقسام۔ (ع۔ ف۔ صفت) وہ چیز جو تقسیم ہو سکے۔

قابل باز پرس۔ (ع۔ ف۔ صفت) مجاہدگی کے لائق۔ مواخذہ طلب۔
قابل تحسین۔ (ع۔ ف۔ صفت) سراہنے کے لائق۔ آفرین کے قابل۔

نہایت پسندیدہ۔

قابل پوید۔ (ع۔ ف۔ صفت) دیکھنے کے قابل۔ دیکھنے کے لائق۔
قابل ذکر۔ (ع۔ ف۔ صفت) ذکر کرنے کے قابل۔

قابل زیارت۔ (ع۔ ف۔ صفت) دیکھنے کے قابل۔

قابو ہونا - (۱- عمارت) (۱) موقع ہونا، (۲) بس ہونا، تیسرا ہونا -
 قابوچی - (قا- بوجی اوت - ۱- مذکر) (۱) دربان - (۲) گھنیزہ، سفیلہ -
 (۳) خود غرض (۴) مفلس -
 قابیل - (قابیل) (سرانی) - ۱- مذکر حضرت آدمؑ کا بیٹا جس سے اپنے
 بیٹے بھائی ہابیل کو اپنی بہن کے خد میں مار ڈالا تھا -
 قاتل - (قاتل) (ع- صفت) - ذر- ۱- مذکر قتل کرنے والا - جلاؤ - (عربی) (۲)
 جنگ - جان لیوا - ظالم -
 قاجار - قاجار - (قا- جبار) (تقدیر) (ف- ۱- مذکر) شامان ایران
 کا ایک خاندان -
 قادر - (قادر) (ع- صفت) (۱) قدرت والا - طاقت رکھنے والا - قابو رکھنے والا -
 غالب - (مختار) (۲) خدا کے تعالیٰ کا ایک معناتی نام -
 قادر الکلام - (ع- صفت) کلام پر قابو اور قدرت رکھنے والا -
 قادر انداز - (ف- صفت) ٹھیک نشانہ لگانے والا - وہ شخص جس کا نشانہ کبھی
 خطا نہ کہے -
 قاور علی الاطلاق (قادر مطلق) (ع- ن- صفت) پوری پوری قدرت
 رکھنے والا - خدا کے تعالیٰ -
 قادری - (قا- ورسی) (ع- صفت) (۱) حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سے منسوب
 (۱- صفت) ایک قسم کا سنیہ بند -
 قادریہ - (قا- ورسی) (ع- ۱- مذکر) صوفیہ کا ایک سلسلہ جو حضرت شیخ عبدالقادر
 جیلانی سے منسوب ہے -
 قادیانی - (۱- صفت) - مرتزا غلام احمد قادیانی کو جنہی ماننے والے مڑائی
 منکر ختم ہوت -
 قارورہ - (قا- رورہ) (ع- ۱- مذکر) (۱) شیشی ضرور صاف شیشی جس میں شیش
 بھر کر حکیم کو دکھاتے ہیں (۲) مجازاً پیشاب -
 قارورہ دیکھنے والا - (۱- صفت) حکیم - طبیب - معالج -
 قارورہ بنانا - (۱- عمارت) (ع- صفت) ہونا - اتحاد ہونا -
 قارون - (قا- رون) (ع- ۱- مذکر) حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا بڑا
 مالدار مگر کھوس شخص جو اپنے مال سمیت زمین میں غرق ہو گیا تھا (عجائبات)
 ہر مالدار اور تکمیل -
 قارون کا تحزنہ - (۱- مذکر) بہت بڑا تحزنہ - بے انتہا دولت -
 قاری - (قا- رسی) (ع- ۱- مذکر) (۱) پڑھنے والا (۲) علم قرآن کے مطابق قرآن
 مجید پڑھنے والا - مع - قارئین - قرآور -
 قاز - (ت- ۱- صفت) ایک اگلی پرندہ - راج ہنس -
 قاسم - (قا- سم) (ع- صفت) (۱) تقسیم کرنے والا - بانٹنے والا -
 قاش - (ت- ۱- صفت) بھانک - بھانکا - بھانکا - بھانکا -
 قاش زین - (ت- ۱- صفت) زین کا ہرنا - زین کے آگے اور پیچھے کے نیچے
 جو بھانک کی صورت کے ہوتے ہیں -
 قاش قاش کرنا - (۱- عمارت) (ع- صفت) (۱) بھانک بھانک کرنا - بھانک بھانک ہرنا -
 قاشیں تراشنا - (۱- عمارت) (ع- صفت) (۱) بھانک بھانک کرنا -
 قاصد - (ع- ۱- مذکر) نامزدی چھٹی رسال - پیام بریلینی -

قاصر - (قا- صر) (ع- صفت) (۱) کوتاہی کرنے والا (۲) مجبور ناچار جمع قاصرین -
 قاصر ہمت - (ع- صفت) کم ہمت - بے حوصلہ -
 قاصر ہونا - (مضمرکب) عاجز ہونا - معذور ہونا - مجبور ہونا - فرض ادا
 کرنے میں کوتاہی کرنا -
 قاضی - (قا- ضی) (ع- ۱- مذکر) (۱) مسلمان منصف جو شرع کی رو
 سے فیصلہ کرے - (۲) جج - نکاح پڑھانے والا مولوی -
 قاضی الحاجات - (ع- صفت) (۱) حاجت دہا کرنے والا (۲) خدا کے تعالیٰ
 (۳) (عجازاً) (۴) روپیہ پیسہ - مال دولت -
 قاضی القضاات - (ع- صفت) سب سے بڑا قاضی جیف بیٹلس -
 قاضی بدو گواہ راضی - (ت- نسل) شریعت اسلامی میں دو گواہوں سے
 مقدمہ کا فیصلہ ہو جاتا ہے -
 قاضی بر شوکت راضی - (ت- نسل) رشوت دینے سے سبھی راضی
 ہو جاتے ہیں -
 قاضی جی اپنا آگاہ توڑھا نکو پیچھے کسی کو نصیحت کرنا -
 (۱- نسل) (۱) نامح پیلے اپنے اطلاق و اطوار درست کرے - پھر دوسرے
 کو نصیحت کرے -
 قاضی جی بہتر امر میں ہارتا ہی نہیں - (۱- نسل) سنت بے
 حیائی - مذہب - اور اللہ کے ظہار میں طنزاً بولتے ہیں -
 قاضی جی کا پیادہ گھوڑے سوار - (۱- نسل) حاکم کا ملازم ہمیشہ
 جلدی ہی کرتا ہوا آتا ہے -
 قاضی جی کے مرنے سے کیا شہر سونا ہو جائے گا - (۱- نسل) کسی
 کے مرنے سے کوئی کام نہیں رکتا -
 قاضی جی کیوں ڈیلے ہا شہر کے اندیشے سے - (۱- نسل) خواہ مخواہ
 بزرگ کے غم میں لگنے دان کی نسبت بولتے ہیں -
 قاضی جی کی لوندی مری سارا شہر آیا - قاضی جی مرنے
 کوئی نہ آیا - (۱- نسل) (۱) بڑے آدمی کی خوشامد اس کی زندگی میں سب کرتے
 ہیں - بڑے برکتی نہیں پوجتا -
 قاضی جی کے گھر کے چوبیسے بھی سپانے - (۱- نسل) حاکم یا بڑے آدمی
 کے گھر کے معمولی لوگ بھی خوشیاں مانتے ہیں -
 قاضی چرخ دھنک - (ع- ن- ۱- صفت) مشتری سیاہ -
 قاضی عدو - (ع- ۱- مذکر) وہ شخص جو کسی طرح بچھا ہی نہ بھجورے -
 قاضی قدودہ - (ع- ۱- مذکر) (۱) ایک کثیر الاداء قاضی - (۲) (کتابت)
 ہر کثیر الاداء شخص -
 قاضی کا پیادہ - (۱- مذکر) عدالت کو چھوڑا سی (کتابت) وہ شخص جس سے لوگ
 ڈرتے اور جرتے بے دت سامنے آجاتے -
 قاضی گلہ کرے گا - (۱- عمارت) (ع- صفت) کوئی معترف نہ ہوگا - کوئی دشواری
 نہ ہوگی -
 قاضی بناؤ نہ کر دگا گھر تو آنے دے گا - (۱- نسل) اگر نفع نہیں
 تو کوئی نقصان بھی نہیں -
 قاطبتا - قاطبتہ - (قا- ط- ب- جن - ۱- ع- تمام) بالکل - سرتاسر -

قاطر - (ن - امت) خچر۔

قاطرچی - (ن - صفت) خچر والا۔

قاطع - (قا - ط) (ع - صفت) قطع کرنے والا۔ کٹنے والا۔

قاطع الطریق - لٹیر۔ بٹ مار۔ ڈاکو۔ بلازین۔

قاعدہ - (قا - ع - ذہ) (ع - ۱ - مذ) (۱) اصل بنیاد (۲) دستور۔ رسم۔ قانون۔ ضابطہ۔

(۳) دائرہ عادت۔ جھلنت (۴) عروض و بحر کی کاہل سالار (۵) قرینہ۔

(۶) دستور العمل۔ ریل گاڑی (۷) حرفت و نجوایا سب کا کوئی قاعدہ۔ جمع قواعد۔

قاعدہ باندھنا - (۱) محاورہ (۲) دستور طہرنا۔ قانون مقرر کرنا۔ (۳) عادت ڈالنا۔

قاعدہ جاری کرنا - (۱) محاورہ (۲) دستور مقرر کرنا۔

قاعدہ دان - (ع - ن - صفت) قاعدہ جاننے والا۔ رسم و علاج سے واقف۔

قاعدہ کلیتہ - (ع - ۱ - مذ) عام قاعدہ۔ اصول۔ بگڑ۔

قاعدہ لگانا - (۱) محاورہ (۲) طریقہ ایجاد کرنا۔

قاعدے سے - (۱) مشتق فعل (۲) سلیقے سے۔ (۳) دستور کے مطابق

(۴) ادب سے۔

قاعدے سے لگانا - (۱) محاورہ (۲) ترتیب سے رکھنا۔

قاعدے کا پابند - (۱) صفت (۲) دستور کا پابند۔ اصول کا پابند۔

قاعدے کی بات ہے - (۱) صفت (۲) عام دستور ہے۔ عام بات ہے۔

قاف - (ع - ۱ - مذ) (۱) عربی کا کیسواں حرف (ق) (۲) ایک پہاڑ جو ایشیائے

کوچک کے شمال میں واقع ہے۔ پرانے زمانے میں لوگوں کا خیال تھا کہ یہ ساری

دنیا بھری ہے۔ اور اس میں بڑیاں آباد ہیں۔

قاف تا قاف - (۱) مشتق فعل (۲) ساری دنیا۔ دنیا کے ایک سرے سے

دوسرے سرے تک۔

قاف کی بڑیاں - (۱) صفت (۲) کھائیاں، جینن، عقوبتیں۔

قافلہ - (قا - ف - ل) (ع - ۱ - مذ) کاروان۔ مسافروں یا تاجروں کا گروہ۔

قافلہ سالار - (ع - ف - ۱ - مذ) سردار قافلہ۔ میر قافلہ۔ سالار کاروان۔

قافیہ - (قا - ف - ی) (ع - ۱ - مذ) (۱) چھپے چلنے والا۔ پے در پے کہنے والا۔

(۲) علم و عروض میں ردیف سے پہلے کا لفظ۔ تنگ۔ جمع - قوافی۔

قافیہ باندھنا - (۱) محاورہ (۲) کسی قافیہ کو شعر میں نظم کرنا۔

قافیہ بندھنا - (۱) محاورہ (۲) کسی قافیہ کا شعر میں نظم ہونا۔

قافیہ بندی - (۱) صفت (۲) تنگ بندی۔ اشعار موزوں کرنا۔

قافیہ پیمہ - (ع - ن - صفت) قافیے ڈھونڈ ڈھونڈ کر شعر کہنے والا۔

قافیہ پیمائی - (ع - ن - صفت) (۱) صفت (۲) اشعار کی تعداد بڑھانے کے لیے قافیہ

ڈھونڈ ڈھونڈ کر نظم کرنا۔

قافیہ تنگ کرنا - (۱) محاورہ (۲) عاجز کرنا۔ پریشان کرنا۔ بڑبھ کرنا۔

قافیہ تنگ ہونا - (۱) محاورہ (۲) قافیہ نہ ملنا۔ کسی مضمون شعر کے

لیے قافیہ دستیاب نہ ہونا۔ گھٹا دکھنا۔ عاجز ہونا۔ (۳) حق ہونا۔

اسامنا۔ تنگ ہونا۔ گھبرانا۔

قافیہ سنج - (ع - ن - صفت) موزوں طبع شاعر۔

قافیہ سنا لگانا - (ع - ن - صفت) (۱) مذ (۲) وہ قافیہ جس میں اہل علم

میلی ہو۔ دیکھیے۔ ایلطہ۔

قافیہ کھنا - (۱) محاورہ (۲) قافیہ باندھنا۔

قافیہ لڑنا - (۱) محاورہ (۲) قافیہ کا کیس ہونا۔

قافیہ ملانا - (۱) محاورہ (۲) تنگ سے تنگ جڑنا۔ (۳) پارہ کا ٹھکانا۔

راز دار بننا۔

قاق - (ع - ۱ - مذ) (۱) سونکا ہوگا گوشت (۲) عجاظ (۳) نہایت دہلاؤ۔ نالیں آدمی۔

قاقا - (قا - ق) (ع - ۱ - صفت) کہنے کی آواز۔ کانیں کانیں۔ دیکھیے۔ قا۔

قاقلم - (قا - ق - م) (ع - ۱ - صفت) بڑی الجھی۔

قاقم - (قا - ق - م) (ع - ۱ - صفت) ایک قسم کا کھیرلا جس کی کھال سے پوستین بنتے

ہیں۔ اس کی کھال قاقم کہلاتی ہے۔

قال - (ع - ۱ - مذ) (۱) گنگو۔ سیاختہ۔ مقلد۔ قول۔ (۲) ظاہری اور دکھا دے

کی بات چیت۔

قال القول - (ع - ۱ - مذ) (۱) اس نے کہا، میں کہتا ہوں (۲) بحث و مناظرہ۔

قال اللہ قال الرسول - (ع - ۱ - مذ) کھائیاں قرآن و حدیث یعنی اللہ کا

کہا ہوا اور رسول کا فرمایا ہوا۔

قال قال - (ع - ۱ - صفت) متعلق فعل، شدہ شدہ۔ ہوتے ہوتے۔

قال مقال - (ع - ۱ - صفت) (ع - ۱ - مذ) حیسب ہمیں محبت

تقصیہ۔

قال وقیل - تکرار۔ محبت۔ محبت۔

قالب - (قا - لب) (ع - ۱ - مذ) (۱) ساٹھا بٹھا نیا۔ کالیڈ (۲) انسان جسم

قالب بدلنا - (۱) محاورہ (۲) چکر بدلنا۔ دوسرا قسم اختیار کرنا۔

قالب بے جان - (ع - ن - صفت) (۱) مذ (۲) مردہ جسم۔

قالب برچھڑھنا - (۱) محاورہ (۲) ٹوٹی وغیرہ کا قالب بڑا رکھنا۔

قالب خالی کرنا - (۱) محاورہ (۲) مرجانا۔

قالب خالی - (ع - ۱ - مذ) کھانا۔ جسم۔ بدن۔ انسان۔

قالب میں ڈالنا - (۱) محاورہ (۲) ساٹھے میں ڈھالنا۔

قالیجہ - (ن - ۱ - مذ) چھوٹا قالین۔

قاصدت - (ع - ۱ - مذ) قدر۔ ذیل جسم۔ بدن۔

قالین - (قا - ل - ن) (ع - ۱ - مذ) قالیجہ۔ ایک قسم کا چھوٹا فرش۔ پیشینہ۔

قالب پر راست آنا - (۱) محاورہ (۲) موزوں ہونا، آنا۔ کھٹ آنا۔

قاصوس - (قا - ص - س) (ع - ۱ - مذ) (۱) بجز۔ سندرہ۔ عربی کا ایک مشہور لفظ

قاصبت - (ع - ۱ - صفت) (۲) صفت (۳) اہل علم دار۔ جہاد گدار۔ (۴) چپ۔ خاموشی

جمع - قاصبتیں۔

قال قال - (ن - صفت) (۱) صفت (۲) بطن کی آواز۔

قالع - (قا - ل - ع) (ع - ۱ - صفت) جناحت کرنے والا۔ جو مل جائے اس پر

راہی بننے والا۔

قانون - (قا - ن - ن) (ع - ۱ - مذ) (۱) مجرط بنیاد (۲) عجاظ (۳) قاعدہ۔ دستور

ضابطہ۔ آئین۔ رسم و علاج (۴) طریق طہر۔ ڈھنگ (۵) ایک بابے کا

نام (۶) شیخ یزید علی سینا کی طب کی ایک کتاب۔ جمع - قوانین۔

قانون اساسی - (ع - ۱ - مذ) بنیادی قانون۔ دستور۔

قانون استعراقی - (ع - ۱ - مذ) آئین جس کی رو سے افعال جائز کی تعمیل اور

تا جاہل سے برہنہ کی تعریف ہو۔

قانون یکساں رہتا۔ (۱- معادہ) اسے ضرورت تکرار کرنا۔

قانون پر چلنا۔ (۱- معادہ) ضابطہ کی پابندی سے۔ آئین کے موافق کارروائی پنہان کرنا۔

قانون جنگی۔ (ع۔ ۱- معادہ) فوجی قوانین۔ وہ قانون جو فوج کے لیے ہو۔

قانون بھانٹنا۔ (۱- معادہ) بیجا محبت کرنا۔ ویسے لانا۔

قانون ڈالنا۔ (ع۔ ۱- معادہ) قانون جاننے والا۔ آئین سرکاری سے واقف۔

قانون دانی۔ (ع۔ ۱- معادہ) قانون کی واقفیت۔

قانون دیوانی۔ (ع۔ ۱- معادہ) وہ قانون جو ترک اور جہاد کے متعلق ہو۔

قانون راجح ہونا۔ (ع۔ ۱- معادہ) قانون پر عمل دیکھنا ہونا۔

قانون فوجداری۔ (ع۔ ۱- معادہ) وہ قانون جس کے تحت جرائم کی سزائیں دی جاتی ہیں۔

قانون کا نفاذ۔ (ع۔ ۱- معادہ) کسی ملک میں قانون کا جاری ہونا۔

قانون گو۔ وہ وہ محترم جس کے پاس تمام ضلع یا علاقہ کی زمینوں کا حساب کتاب رہتا ہے۔ پنجاب میں کانسر (۱۵) خیول کی ایک گوت (۳) ہاٹک (۱) جھنگ والا۔

قانون گوئی۔ (ع۔ ۱- معادہ) قانون گو کا عہدہ۔

قانون مال۔ (ع۔ ۱- معادہ) لگان اور مال گزارہ کی ضابطہ۔

قانون مختص الامر۔ (ع۔ ۱- معادہ) وہ قانون جو کسی خاص امر کی بابت جاری ہو۔

قانون مختص المقام۔ وہ قانون جو کسی خاص حصہ ملک کے لیے جاری ہو۔

قانونیہ۔ (ع۔ ۱- معادہ) قانون سے متعلق قانون حسب ضابطہ۔

قانونیچہ۔ (ع۔ ۱- معادہ) (۱- معادہ) علم طلب کی ایک کتاب کا نام (۲) ایک باجر۔

قانونی۔ (ع۔ ۱- معادہ) (۱- معادہ) قانون سے متعلق (۲) قانون کی راز سے قانون بنانے یا جاننے والا۔ (۳) جھنگ والا۔ تکرار سے بچتی۔

قانونیہ۔ (ع۔ ۱- معادہ) (۱- معادہ) (۲) آرزو سے بچتی۔ جھنگ والا۔

قاہر۔ (ع۔ ۱- معادہ) (۱- معادہ) (۲) غالب۔ زیر دست۔ زود اور طاقت ور۔

قاہرہ۔ (ع۔ ۱- معادہ) (۱- معادہ) (۲) قاہرہ کی تائید۔ غالب۔ زیر دست۔ (۳) مہر کے دارالحکومت کا نام۔

قاہ قاہ۔ (ع۔ ۱- معادہ) (۱- معادہ) (۲) قاہرہ سے متعلق۔

قائد۔ (ع۔ ۱- معادہ) (۱- معادہ) (۲) فوج کا سردار۔ حاکم۔ (۳) آئین کے لاطینی پوزر یعنی والا۔ رہنما۔ لیڈر۔

قائد اعظم۔ (۱- معادہ) (۱- معادہ) (۲) بہت بڑا رہبر قوم۔ (۳) پاکستانی مسلمانوں کے محسن اعظم۔ بانی پاکستان محمد علی جناح کا لقب۔

قائسہ۔ (ع۔ ۱- معادہ) (۱- معادہ) (۲) گنگوٹا۔

قائسہ کرنا۔ (ع۔ ۱- معادہ) (۱- معادہ) (۲) گنگوٹے کے مندر پر وہ چڑھا کر گام کے تسمے کو دم سے بانہ دینا (۳) مجرور رہنا۔ گنگوٹا بانہ دھنا۔

قائل۔ (ع۔ ۱- معادہ) (۱- معادہ) (۲) کہنے والا۔ بولنے والا (۳) اپنا قصور ماننے والا تسلیم کرنے والا۔ ہار مانتے والا۔ لاجواب۔

قائل کرنا۔ (۱- معادہ) لاجواب کرنا۔ شرمندہ کرنا۔

قائل معقول کرنا۔ (۱- معادہ) لاجواب کرنا۔ جھوٹ ثابت کرنا۔ شرمندہ کرنا۔ قصور کا اقرار کرنا۔

قائل ہونا۔ (۱- معادہ) (۲) مان لینا۔ غلطی تسلیم کرنا۔ (۳) استاد ماننا۔ ماہر بننا۔ ماننا۔

قائل ہونے کی جگہ ہے۔ (۱- معادہ) تسلیم کرنا پڑتا ہے

قائم۔ (ع۔ ۱- معادہ) (۱- معادہ) (۲) کھڑا ہونے والا۔ کھڑا ہونا۔ (۳) سیدھا۔ مضبوط۔ پائیدار۔ (۴) موجود۔ مستقل۔ مقررہ۔ برقرار۔ (۵) شطرنج میں دونوں خریٹوں کا برابر رہنا۔

قائم اٹھنا۔ (۱- معادہ) شطرنج میں بازی برابر رہنا۔ دونوں خریٹوں میں سے کسی کو مات نہ دینا۔

قائم الزاویہ۔ (ع۔ ۱- معادہ) وہ زاویہ جو نوے درجے کا ہو۔

قائم الزمان۔ (ع۔ ۱- معادہ) ہمیشہ کے امام کا نائب۔

قائم اللیل۔ (ع۔ ۱- معادہ) عبادت کے لیے رات بھر جاگنے والا۔

قائم المزاج۔ (ع۔ ۱- معادہ) مستقل مزاج۔ دلکس کا پکا۔

قائم النار۔ (ع۔ ۱- معادہ) آگ پر ٹھہرنے والا۔

قائم انداز۔ (ع۔ ۱- معادہ) (۱) شطرنج کا نام۔ وہ چوہنی بازی کو ہر طرح برقرار رکھنے (۲) جھجک نہ لگنے والا۔ قادر انداز۔

قائم بالذات۔ (ع۔ ۱- معادہ) وہ چیز جو بذات خود قائم اور برقرار ہو۔

قائم بالغیر۔ (ع۔ ۱- معادہ) وہ چیز جو کسی دوسرے کے سہما سے قائم ہو۔ دوسرے کا محتاج۔

قائم رکھنا۔ (۱- معادہ) برقرار رکھنا۔ موجود رکھنا۔ صحیح و سلامت رکھنا۔

قائم رہنا۔ (۱- معادہ) برقرار رہنا۔ مضبوط رہنا۔

قائم کرنا۔ (۱- معادہ) بنیاد رکھنا۔ مقرر کرنا (۲) اٹھانا۔ کھڑا کرنا۔ بنانا (۳) حد مقرر کرنا (۴) مضبوط کرنا۔ مستقل کرنا۔ برقرار کرنا (۵) رکھنا۔ اٹھانا۔

دھرنانا (۶) پیدا کرنا۔ موجود کرنا۔

قائم مزاج۔ (ع۔ ۱- معادہ) مستقل مزاج۔ ثابت قدم۔

قائم مزاجی۔ (ع۔ ۱- معادہ) ثابت قدمی۔ استقلال۔ مضبوطی۔ ثبات۔

قائم مقام۔ (۱) کسی کی جگہ کام کرنے والا۔ عوضی (۲) مختار کار۔ وکیل۔ گاشتہ۔ (۳) علی عہدہ وظیفہ۔ نائب۔

قائم مقام ہونا۔ (۱- معادہ) دوسرے کی جگہ کام کرنا۔ عوضی پر ہونا۔

قائم مقامی۔ (ع۔ ۱- معادہ) (۱) عوضی (۲) وکیل۔ سفارت۔

قائم ہونا۔ (۱- معادہ) (۱) اٹھنا۔ کھڑا ہونا (۲) مستقل ہونا۔ برقرار ہونا (۳) بنیاد رکھنا۔ نیوڑنا (۴) حد مقرر ہونا (۵) اٹھنا۔ رہنا (۶) رکھنا۔ دھرتا (۷) آگ پر ٹھہر جانا۔ اور مقدار میں بڑھنا۔

قائمہ۔ (ع۔ ۱- معادہ) (۱- معادہ) (۲) نوے درجے کا زاویہ۔

قائمگی۔ (ع۔ ۱- معادہ) (۱- معادہ) (۲) قائم۔ یا ملازم۔ استقلال۔ ٹھہراؤ۔

قائل قائل۔ (ع۔ ۱- معادہ) (۱- معادہ) (۲) قائل۔ (۳) قائل۔ (۴) قائل۔ (۵) قائل۔ (۶) قائل۔ (۷) قائل۔ (۸) قائل۔ (۹) قائل۔ (۱۰) قائل۔ (۱۱) قائل۔ (۱۲) قائل۔ (۱۳) قائل۔ (۱۴) قائل۔ (۱۵) قائل۔ (۱۶) قائل۔ (۱۷) قائل۔ (۱۸) قائل۔ (۱۹) قائل۔ (۲۰) قائل۔ (۲۱) قائل۔ (۲۲) قائل۔ (۲۳) قائل۔ (۲۴) قائل۔ (۲۵) قائل۔ (۲۶) قائل۔ (۲۷) قائل۔ (۲۸) قائل۔ (۲۹) قائل۔ (۳۰) قائل۔ (۳۱) قائل۔ (۳۲) قائل۔ (۳۳) قائل۔ (۳۴) قائل۔ (۳۵) قائل۔ (۳۶) قائل۔ (۳۷) قائل۔ (۳۸) قائل۔ (۳۹) قائل۔ (۴۰) قائل۔ (۴۱) قائل۔ (۴۲) قائل۔ (۴۳) قائل۔ (۴۴) قائل۔ (۴۵) قائل۔ (۴۶) قائل۔ (۴۷) قائل۔ (۴۸) قائل۔ (۴۹) قائل۔ (۵۰) قائل۔ (۵۱) قائل۔ (۵۲) قائل۔ (۵۳) قائل۔ (۵۴) قائل۔ (۵۵) قائل۔ (۵۶) قائل۔ (۵۷) قائل۔ (۵۸) قائل۔ (۵۹) قائل۔ (۶۰) قائل۔ (۶۱) قائل۔ (۶۲) قائل۔ (۶۳) قائل۔ (۶۴) قائل۔ (۶۵) قائل۔ (۶۶) قائل۔ (۶۷) قائل۔ (۶۸) قائل۔ (۶۹) قائل۔ (۷۰) قائل۔ (۷۱) قائل۔ (۷۲) قائل۔ (۷۳) قائل۔ (۷۴) قائل۔ (۷۵) قائل۔ (۷۶) قائل۔ (۷۷) قائل۔ (۷۸) قائل۔ (۷۹) قائل۔ (۸۰) قائل۔ (۸۱) قائل۔ (۸۲) قائل۔ (۸۳) قائل۔ (۸۴) قائل۔ (۸۵) قائل۔ (۸۶) قائل۔ (۸۷) قائل۔ (۸۸) قائل۔ (۸۹) قائل۔ (۹۰) قائل۔ (۹۱) قائل۔ (۹۲) قائل۔ (۹۳) قائل۔ (۹۴) قائل۔ (۹۵) قائل۔ (۹۶) قائل۔ (۹۷) قائل۔ (۹۸) قائل۔ (۹۹) قائل۔ (۱۰۰) قائل۔

قبر تک ساتھ جانا۔ (۱- محاورہ) عمر بھر رہنا۔ زندگی بھر تاقی رہنا۔
قبر جھانک کر آنا۔ (۱- محاورہ) مزرے کے پچھا۔ ہلاکت سے نجات پانا۔
قبر سلامی۔ (ع۔ امت) وہ رقم جو ملک زمین کو اس کی ملکیت میں قبر بنانے کے عوض دی جائے۔

قبر سے اٹھ کر آنا۔ (۱- محاورہ) دوبارہ زندہ ہونا۔
قبر سے نکل کر آنا۔ (۱- محاورہ) اس وقت کہتے ہیں جب سخت بیماری یا سنگ سے کسی کی صحت ڈر آئی ہو جاتی ہے۔

قبر کا عویذ۔ (۱- مذ) سنگ مزار وہ چجر جو قبر کی نشانی کیلئے صندوق کی وضع کرنا کہ قبر پر رکھ دیتے ہیں۔

قبر کا عذاب۔ (۱- مذ) وہ تکلیف جو قبر میں گنہگار کو ہوتی ہے۔
قبر کھود کر نکال لانا۔ (۱- محاورہ) کھود کر لگا کر لے آنا۔

قبر کھوڑنا۔ (۱- محاورہ) (۱) قبر بنانا، بہت مارتا۔
قبر کے مُردے کو اٹھانا، اٹھنے پڑنا۔ (۱- محاورہ) (۲) بچانے جھگڑے لگانا، دہلی ہولناقیوں کو اٹھانا۔

قبر میں آنا۔ (۱- محاورہ) مُردے کو قبر میں رکھنا۔
قبر میں پاؤں لٹکانے بیٹھنا۔ (۱- قول) مرنے کے قریب ہونا، مرنے کو تیار ہونا۔ بڑھاپے یا سخت بیماری کے موقع پر بولتے ہیں۔

قبر میں (بیٹھ کر) گھر نہ لگنا۔ (۱- محاورہ) مرنے کے بعد بھی جان نہ مٹنا۔
قبر میں عین دن بھاری۔ (۱- محاورہ) مسلمانوں کا قیام ہے کہ قبر میں رکھے سے تین دن تک حساب کتاب ہوتا رہتا ہے۔

قبر میں ساتھ لے جانا۔ (۱- محاورہ) قبر میں بھی یاد رکھنا۔
قبر میں سے نکل کر آنا۔ (۱- محاورہ) بیماری یا صدمے سے نہایت کمزور و ناتواں ہو جانا۔ صحت ڈرا ڈنی ہو جانا۔

قبر میں کیڑے پڑیں۔ (۱- مذ) دعا، قبر میں بھی آرام نصیب نہ ہو۔
قبرستان۔ (قبر۔ رس۔ ستان) (ع۔ ف۔ ۱- مذ) وہ جگہ جہاں بہت سی قبریں ہوں قبض۔ (ع۔ ۱- مذ) (۱) گھسی بگلی (۲) دلہنیا۔ (۳) سٹھاؤ۔ (۴) کالو بڑی دھل (۵) پاخانہ نہانا۔

قبض الوصول۔ (ع۔ ۱- مذ) وہ رجسٹری فارم جس پر رقم وصول کرنے والے کے دستخط لے جاتے ہیں۔
قبض بالجبر۔ (ع۔ ۱- مذ) زبردستی قبضہ۔ ناجائز طور سے ملکیت۔

قبض دخل۔ (ع۔ ۱- مذ) لچو یا قبضہ۔
قبض روح۔ (ع۔ ۱- مذ) جسم سے روح کا نکلنا۔

قبض کرنا۔ (۱- محاورہ) (۱) روح لگانا، کھینچنا، (۲) پاخانہ نہانے دینا۔
قبض و بسط۔ (ع۔ ۱- مذ) (۱) نفوس کی اصطلاح میں دل کا صلا کی یاد کی طرف کبھی متوجہ ہونا اور کبھی نہ ہونا۔

قبضہ۔ (قبر۔ منہ) (ع۔ ۱- مذ) (۱) دخل، مدخلیت۔ تصرفت۔ (۲) موٹھ۔ دستہ۔ (۳) قابو۔ اختیار۔ (۴) (۱) کوڑا ڈھیرہ کے ٹوڑ کا لہوا (۵) بازو، ڈونڈر۔

قبضہ اٹھنا۔ (۱- محاورہ) بے دخل ہونا۔
قبضہ بالذنیابت۔ (ع۔ ۱- مذ) قائم مقام ہونے کی حیثیت سے قبضہ۔

کائیں کائیں۔

قائیں قائیں۔ (قائیں۔ تائیں) (۱- امت) دیکھو کائیں کائیں۔

ق-ب

قبالہ۔ (۱- با۔ ج۔ ۱- امت) ایک قسم کا آگے سے کھلا ہوا کوٹ یا لچکن۔
قبالہ کرنا۔ (۱- محاورہ) چاک کرنا، ٹکڑے ٹکڑے کرنا، پارہ پارہ کرنا۔

قبالہ ہونا۔ (۱- محاورہ) چاک ہونا، ٹکڑے ٹکڑے ہونا۔
قبالہ قبالہ۔ (ق۔ با۔ ج۔ ۱- امت) چھوٹی قبالہ۔
قبالہ تخت۔ (ق۔ با۔ ج۔ ۱- امت) (۱) برائی، غرابی، نقص۔ عیب بھوت (۲) دشواری۔ وقت۔ مشکل۔ مصیبت۔

قبالہ تخت لگانا۔ (مص مرکب) نقص یا عیب ظاہر ہونا۔ مشکل پڑنا۔ وقت پیش آنا۔
قبالہ ہونا۔ (مص مرکب) غرابی ہونا، برائی ہونا۔ دشواری ہونا۔

قبالہ۔ (ق۔ با۔ ج۔ ۱- امت) تمک۔ دینے نامہ۔ کاغذ جس سے کسی چیز پر ملکیت ظاہر ہو، مکان کا فہرہ نامہ۔

قبالہ لکھوانا۔ (۱- محاورہ) قاپظ ہو جانا، گھر کا مالک ہو جانا۔
قبالہ لینا۔ (۱- محاورہ) کسی مکان۔ جا بھاریا جاگیر پر قاپظ ہونا۔ (۲) کسی پر قابو پانا۔ ذیل کرنا۔

قبالہ لڑیں۔ (ع۔ ف۔ ۱- مذ) وہ شخص جس کا پیشہ تمک اور دینا دیکھنا ہو۔
قبالہ نیلام۔ (ع۔ ف۔ ۱- مذ) وہ سید ملکیت جو نیلام کرنے والے کی جانب سے لے لیا۔ خط فروخت۔

قبالے لے ڈالنا۔ (۱- محاورہ) (۱) قبضہ کر لینا، قاپظ ہو جانا، (۲) عاجز کر دینا، ہرا دینا۔
قبالے لے لینا، لکھوانا۔ (۱- محاورہ) قاپظ ہو جانا، مالک بن جانا۔

قبالے میں لانا۔ (۱- محاورہ) بیٹ کرنا، قبضہ میں دینا۔
قبالہ۔ (ق۔ با۔ ج۔ ۱- امت) (ع۔ ۱- مذ) قبیلہ کی جمع (۱) بھائیوں۔
قبائل۔ (ق۔ با۔ ج۔ ۱- امت) (ع۔ ۱- مذ) قبیلہ کی جمع (۱) گمراہ جماعتیں، قریبے۔ (۲) زبہ۔

قبیلہ۔ (ع۔ ۱- مذ) (۱) قبیلہ کی ایک چٹان جو بہت مقدس سمجھی جاتی ہے۔
قبیلہ الصخر۔ (ع۔ ۱- مذ) (۱) قبیلہ کی ایک چٹان جو بہت مقدس سمجھی جاتی ہے۔
قبیلہ قبیلہ۔ (ع۔ ۱- امت) (۱) قبیلہ کی ایک چٹان جو بہت مقدس سمجھی جاتی ہے۔

قبیلہ۔ (ع۔ ۱- امت) (۱) قبیلہ کی ایک چٹان جو بہت مقدس سمجھی جاتی ہے۔
قبیلہ۔ (ع۔ ۱- امت) (۱) قبیلہ کی ایک چٹان جو بہت مقدس سمجھی جاتی ہے۔

قبیلہ۔ (ع۔ ۱- امت) (۱) قبیلہ کی ایک چٹان جو بہت مقدس سمجھی جاتی ہے۔
قبیلہ۔ (ع۔ ۱- امت) (۱) قبیلہ کی ایک چٹان جو بہت مقدس سمجھی جاتی ہے۔

قبیلہ۔ (ع۔ ۱- امت) (۱) قبیلہ کی ایک چٹان جو بہت مقدس سمجھی جاتی ہے۔

ق۔ح

قبیلہ (ق۔ح۔ل۔ز) (ع۔سندھ) ایک دلائی اولاد۔ گروہ۔ فرقہ۔ زمرہ۔ جھانڈا (آر۔سنت) بیوی خورد۔ ایل۔ پھر والی جمع۔ قبائل۔
قبیلہ پرورد (ق۔ح۔ل۔ز) (ع۔سندھ) اپنے کپتے کی پرورش کرنے والا۔

قحبہ (ق۔ح۔ل۔ز) (ع۔سندھ) ایک بیوی خورد۔ فاحشہ۔ زندی۔
قحبہ چوں پیر نشو و پیشہ کند دلالی۔ (ق۔ح۔ل۔ز) (ع۔سندھ) ایک بیوی خورد۔
قحبہ خانہ (ق۔ح۔ل۔ز) (ع۔سندھ) ایک بیوی خورد۔
قحط (ق۔ح۔ل۔ز) (ع۔سندھ) ایک بیوی خورد۔
قحط الزحجال (ق۔ح۔ل۔ز) (ع۔سندھ) ایک بیوی خورد۔
قحط سالی (ق۔ح۔ل۔ز) (ع۔سندھ) ایک بیوی خورد۔

ق۔ت

قتال (ق۔ت۔ج۔ل۔ز) (ع۔سندھ) جنگ۔ لڑائی۔ گشت و خون۔
قتال (ق۔ت۔ج۔ل۔ز) (ع۔سندھ) جنگ۔ لڑائی۔ گشت و خون۔
قتال (ق۔ت۔ج۔ل۔ز) (ع۔سندھ) جنگ۔ لڑائی۔ گشت و خون۔
قتال (ق۔ت۔ج۔ل۔ز) (ع۔سندھ) جنگ۔ لڑائی۔ گشت و خون۔
قتال (ق۔ت۔ج۔ل۔ز) (ع۔سندھ) جنگ۔ لڑائی۔ گشت و خون۔

ق۔د

قد (ق۔د۔ج۔ل۔ز) (ع۔سندھ) ایک بیوی خورد۔
قد (ق۔د۔ج۔ل۔ز) (ع۔سندھ) ایک بیوی خورد۔
قد (ق۔د۔ج۔ل۔ز) (ع۔سندھ) ایک بیوی خورد۔
قد (ق۔د۔ج۔ل۔ز) (ع۔سندھ) ایک بیوی خورد۔
قد (ق۔د۔ج۔ل۔ز) (ع۔سندھ) ایک بیوی خورد۔
قد (ق۔د۔ج۔ل۔ز) (ع۔سندھ) ایک بیوی خورد۔
قد (ق۔د۔ج۔ل۔ز) (ع۔سندھ) ایک بیوی خورد۔
قد (ق۔د۔ج۔ل۔ز) (ع۔سندھ) ایک بیوی خورد۔
قد (ق۔د۔ج۔ل۔ز) (ع۔سندھ) ایک بیوی خورد۔
قد (ق۔د۔ج۔ل۔ز) (ع۔سندھ) ایک بیوی خورد۔

قتل (ق۔ت۔ج۔ل۔ز) (ع۔سندھ) ایک بیوی خورد۔
قتل (ق۔ت۔ج۔ل۔ز) (ع۔سندھ) ایک بیوی خورد۔
قتل (ق۔ت۔ج۔ل۔ز) (ع۔سندھ) ایک بیوی خورد۔
قتل (ق۔ت۔ج۔ل۔ز) (ع۔سندھ) ایک بیوی خورد۔
قتل (ق۔ت۔ج۔ل۔ز) (ع۔سندھ) ایک بیوی خورد۔
قتل (ق۔ت۔ج۔ل۔ز) (ع۔سندھ) ایک بیوی خورد۔
قتل (ق۔ت۔ج۔ل۔ز) (ع۔سندھ) ایک بیوی خورد۔
قتل (ق۔ت۔ج۔ل۔ز) (ع۔سندھ) ایک بیوی خورد۔
قتل (ق۔ت۔ج۔ل۔ز) (ع۔سندھ) ایک بیوی خورد۔
قتل (ق۔ت۔ج۔ل۔ز) (ع۔سندھ) ایک بیوی خورد۔

ق۔ث

قتیل (ق۔ت۔ج۔ل۔ز) (ع۔سندھ) ایک بیوی خورد۔
قتیل (ق۔ت۔ج۔ل۔ز) (ع۔سندھ) ایک بیوی خورد۔
قتیل (ق۔ت۔ج۔ل۔ز) (ع۔سندھ) ایک بیوی خورد۔
قتیل (ق۔ت۔ج۔ل۔ز) (ع۔سندھ) ایک بیوی خورد۔
قتیل (ق۔ت۔ج۔ل۔ز) (ع۔سندھ) ایک بیوی خورد۔

قدرت کی خیر منانا۔ (۱- معادہ) اپنی خیر چاہنا۔ اپنی بہتری چاہنا۔ (۱- منہ) اپنے کے ساتھ مستقل ہے۔

قدر۔ (۱- ذر) (۲- معادہ) (۳- قضا) حکم الہی۔ تقدیر (۲) (۳) مقدار۔ اندازہ ظاہر کرنے کے لئے داس تقریبی ہوتا۔

قدر انداز۔ وہ شخص جس کا شانہ ٹھیک موندے پریشانی۔ قادر انداز۔

قدر۔ (۱- معادہ) (۲- عزت) (۳- جدت) (۴- تکریم) (۵- درجہ) (۶- مرتبہ) (۷- کسی چیز کا اندازہ) (۸- مقدار) (۹- برابر) کیسا۔

قدر اٹھ جانا۔ (۱- معادہ) (۲- وقت) جاتی رہنا۔

قدر اولیٰ کی اولیٰ جانتا ہے۔ ہما کو کتبِ مقدسہ میں پتا ہے۔ (۱- مثل) کسی چیز یا بات کی قدر اس کا جاننے والا ہی کرتا ہے۔

قدر جانتا۔ (۱- معادہ) (۲- وقت) ہونا۔

قدر جوہر (جوہر) شاہ دانہ دنیا بداند جوہری۔ قدر نذر گر بداند قدر جوہر جوہری۔ (۱- مثل) (۲- کمال) قدر اس کمال کے جاننے والے ہی کہتے ہیں۔

قدر دان۔ (۱- معادہ) (۲- قدر شناس) (۳- قدر جاننے والا)۔ جوہر شناس (۴)۔

مربی۔ سرپرست۔

قدر دانی۔ قدر شناسی۔ (۱- معادہ) (۲- عزت) (۳- جوہر شناسی)۔ بہتر شناسی (۴)۔

قدر دانی کرنا۔ (۱- معادہ) (۲- باعث) (۳- عزت) کرنا بہتر کی داد دینا۔

قدر رہنا۔ عزت قائم رہنا۔

قدر عاقبت۔ (۱- میزان) (۲- سے) (۳- زندگی) (۴- بسر کرنے کا) (۵- وقت)۔

قدر عاقبت کے دانہ کو ہر مصیبت کو فائدہ آید۔ (۱- مثل) (۲- آرام) کی قدر رہی جانتے ہیں جس کو کسی مصیبت سے گزرنا پڑے۔

قدر عاقبت کھلنا۔ (۱- معلوم ہونا)۔ (۲- معادہ) (۳- حقیقت معلوم ہونا)۔

بہتر گ جانا۔

قدر کرنا۔ (۱- معادہ) (۲- عزت) کرنا تو فر کرنا۔

قدر کھو دیتا ہے ہر روز کا آنا جانا۔ (۱- مثل) (۲- ہر وقت) آئے جانے سے عزت باقی نہیں رہتی۔

قدر مردم بعد مردان۔ (۱- مثل) (۲- آدمی) کی قدر اس کے مرجلنے کے بعد معلوم ہوتی ہے۔

قدر نعمت بعد زوال۔ (۱- مثل) (۲- اچھی چیز) کی قدر اس چیز سے محروم ہونے کے بعد ہوتی ہے۔

قدر و قیمت۔ (۱- معادہ) (۲- عزت) (۳- قیمت)۔

قدر و منزلت۔ (۱- معادہ) (۲- منصب) (۳- عزت)۔ تقدیر۔

قدر ہونا۔ (۱- معادہ) (۲- عزت) ہونا۔ (۳- وقت) ہونا۔ (۴- تقدیر) ہونا۔

قدرت۔ (۱- تقدیر) (۲- معادہ) (۳- طاقت)۔ (۴- زور) (۵- جمال) (۶- عزت) (۷- حوصلہ) (۸- خدا کی طاقت)۔ فطرت۔ شان الہی۔

قدرت پانا۔ (۱- معادہ) (۲- قابو) حاصل کرنا۔ (۳- حوصلہ) پانا۔ طاقت پانا۔

قدرت خدا۔ (۱- معادہ) (۲- عزت) (۳- خدا کی شان)۔ (۴- عزت) اور تعجب کے موقع پر بولتے ہیں۔

قدرت رکھنا۔ (۱- معادہ) (۲- قادر) ہونا۔ (۳- قابلیت) رکھنا۔

قدرت کا تماشہ۔ (۱- مذ) (۲- زمانے کی) نیگی۔

قدرت کا کھلونا۔ (۱- مذ) (۲- خوبصورت) چیز۔

قدرت کا ملہ۔ (۱- مذ) (۲- پوری پوری طاقت)۔ بے انتہا طاقت۔

قدرت کے کارخانے (مگر شمسے۔ کھیل)۔ (۱- مذ) (۲- خدا کے) تعالیٰ کی قدرت اور صنعت۔ (۳- مذ) (۴- کائنات کی) نیگیں۔ عجیب

عجیب باتیں جو خدا کی طرف سے ہوں۔

قدرتی۔ (۱- قدرتی) (۲- معنی) (۳- علمی) (۴- فطری)۔ (۵- اصلی) (۶- حقیقی)۔ (۷- پیدائشی)۔

قدرتی رنگ۔ (۱- معادہ) (۲- اصلی) رنگ۔ (۳- ذاتی) رنگ۔

قدرتی علامات۔ (۱- معادہ) (۲- فطری) نشانیاں۔ (۳- نشانات) (۴- ایزی)۔

قدری۔ (۱- قدرتی) (۲- معنی) (۳- مسلمانوں کے) فرقہ قدری سے منسوب قدری مذہب کے عقائد رکھنے والا۔

قدری۔ (۱- قدرتی) (۲- ذات) (۳- معنی) (۴- کوشش) (۵- امر) (۶- دباؤ)۔

قدری کرنا۔ (۱- معادہ) (۲- کوشش) کرنا۔ (۳- ہر ارکنا)۔ (۴- باڈاڈا)۔

قدری ہو جائے۔ (۱- معنی) (۲- فعل) (۳- حاشا) (۴- دکھائی) (۵- بگڑ)۔ (۶- ہرگز) (۷- قدری) ہو جائے میں نڈاؤں کی۔

قدی۔ (۱- معادہ) (۲- معنی) (۳- قدر)۔ (۴- معنی) (۵- معنی) (۶- تھوڑا) (۷- قلیل)۔

قدی۔ (۱- معادہ) (۲- معنی) (۳- ایک فرقہ جو قضا و قدر کا منکر ہے)۔

قدس۔ (۱- معادہ) (۲- متبرک)۔ (۳- پاک)۔ (۴- مقدس) (۵- منکر) (۶- عرب کے) ایک پہاڑ کا نام (۷- بیت المقدس)۔ (۸- برشلونہ) (۹- جبریل علیہ السلام)۔ (۱۰- نبی)۔

روح القدس ہی کہتے ہیں (۱۰)۔ (۱۱- بانی) (۱۲- بشارت)۔

قدس برتر۔ (۱- معادہ) (۲- برتر)۔ (۳- معنی) (۴- معنی) (۵- معنی) (۶- معنی)۔

پاک ہو خدا کا۔ (۱- معادہ) (۲- معنی) (۳- معنی) (۴- معنی) (۵- معنی)۔

اللہ علیہ کی بگڑا متعلق ہے۔

قدسی۔ (۱- معادہ) (۲- معنی) (۳- معنی) (۴- معنی) (۵- معنی) (۶- معنی)۔

قدسی نیک آدمی۔ (۱- معادہ) (۲- معنی) (۳- معنی) (۴- معنی) (۵- معنی)۔

قدسی صفات۔ (۱- معادہ) (۲- معنی) (۳- معنی) (۴- معنی) (۵- معنی)۔

قدسی۔ (۱- معادہ) (۲- معنی) (۳- معنی) (۴- معنی) (۵- معنی)۔

قدسی۔ (۱- معادہ) (۲- معنی) (۳- معنی) (۴- معنی) (۵- معنی)۔

قدسی۔ (۱- معادہ) (۲- معنی) (۳- معنی) (۴- معنی) (۵- معنی)۔

قدسی۔ (۱- معادہ) (۲- معنی) (۳- معنی) (۴- معنی) (۵- معنی)۔

قدسی۔ (۱- معادہ) (۲- معنی) (۳- معنی) (۴- معنی) (۵- معنی)۔

قدسی۔ (۱- معادہ) (۲- معنی) (۳- معنی) (۴- معنی) (۵- معنی)۔

قدسی۔ (۱- معادہ) (۲- معنی) (۳- معنی) (۴- معنی) (۵- معنی)۔

قدم اٹھنا - (۱۔ محاورہ) پاؤں اٹھنا۔ سرکنا بلنا حرکت کرنا۔
 قدم اٹھنا - (۱۔ محاورہ) پاؤں اٹھنا۔ کھلا تھرہ سنا۔
 قدم باز - (ع۔ ف۔ صفت) تیز رفتار گھوڑے کی تعریف ہے۔
 قدم باہر نکالنا - (۱۔ محاورہ) حد سے باہر کرنا۔
 قدم برداشتہ - (ف۔ متعلق نعل) تیز رفتاری سے۔
 قدم بڑھ کر قدم - (ع۔ ف۔ صفت) پیروی کرنے والا۔
 قدم بڑھانا - (۱۔ محاورہ) آگے چلنا (۲۔ تیز چلنا ۳۔ اپنی حد سے بڑھنا ۴۔
 رکنا تینا۔ مداخلت کرنا۔ دخل دینا۔
 قدم بڑھا کرنا - (۱۔ محاورہ) سبقت لے جانا۔
 قدم بڑھ کے لینا - (۱۔ محاورہ) استقبال کرنا۔
 قدم بوس - (ع۔ ف۔ صفت) پاؤں چومنے والا۔
 قدم بوس ہونا - (۱۔ محاورہ) تعظیم پاؤں چومنا۔ کسی بزرگ کی خدمت میں
 حاضر ہونا۔
 قدم بوسی - (ع۔ ف۔ صفت) پاؤں چومنا۔ پاؤں کو ہاتھ لگانا۔
 قدم سجاری ہونا - (۱۔ محاورہ) منجوس قدم ہونا۔ کسی شخص کا نام مبارک ہونا۔
 قدم بھج - (۱۷۔ متعلق نعل) ایک قدم۔
 قدم بڑھ چلنا - (۱۔ محاورہ) کسی کی پیروی کرنا۔ پیچھے چلنا۔ ساتھ ساتھ چلنا۔
 قدم بچ سے نکل جانا - (۱۔ محاورہ) دخل نہ رہنا۔ واسطہ نہ رہنا۔
 قدم بچ میں ہونا - (واسطہ) واسطہ ہونا۔ دخل ہونا۔
 قدم تیز چلنا - (۱۔ محاورہ) پیروی کرنا۔
 قدم بڑھ کر قدم رکھنا - (۱۔ محاورہ) کسی کی پیروی کرنا۔
 قدم (قدموں) پر ہاتھ دھرنا - (۱۔ محاورہ) عاجزی کرنا (۲۔ بطور قسم
 کے قدم کو ہاتھ لگانا۔
 قدم بڑھنا - (۱۔ محاورہ) کسی تیز پر پاؤں چلنا۔
 قدم بڑھ کر رکھ دینا - (۱۔ محاورہ) مبلغ ہونا۔ اطاعت کرنا۔ خوشامد کرنا۔
 عزت کرنا۔
 قدم بڑھانا - (۱۔ محاورہ) (۱) تعظیم بزرگوں کے پاؤں چھونا (۲) کسی جگہ کا اپنی
 دلچسپی کے باعث چلنے والے کو ٹھہرا لینا۔
 قدم (قدموں) پر گھرنا - (۱۔ محاورہ) بے حد تعظیم کرنا۔ منت خوشامد کرنا۔
 قدم بچھ جانا - (۱۔ محاورہ) پیچھے ہٹنا۔ پسپا ہونا۔
 قدم بچھونک کے رکھنا - (۱۔ محاورہ) احتیاط برتنا۔
 قدم کوش جانا (لوٹنا) - (۱۔ محاورہ) چلتے چلتے تھک جانا (۲) سپاہیوں
 کے قدم آہ میں ہی نہ ملنا۔
 قدم جمانا - (۱۔ محاورہ) جھمکھڑا ہونا۔ جھمک رہنا۔ (۲) استقلال
 حاصل کرنا۔
 قدم چومنا - (۱۔ محاورہ) پایوں کو کرنا۔ (۲) کامل ماننا۔ (۳) طنزاً شہرتی
 تسلیم کرنا۔
 قدم چہ - (ع۔ ف۔ ا۔ مذ) کھڈی کا پایہ۔ جس پر پاؤں رکھ کر پاخانے
 کے لیے بیٹھتے ہیں۔
 قدم چھوڑنا - کسی بزرگ سے جدا ہونا۔

قدم درمیان سے اٹھ جانا - (۱۔ محاورہ) متعلق یا واسطہ نہ رہنا۔
 قدم درمیان ہونا - (۱۔ محاورہ) واسطہ کرنا۔ دخل ہونا۔ بیچ میں ہونا۔
 اڑنے آنا۔
 قدم درویشیاں رد بلا - (ف۔ ش) بابرکت آدمی کے آنے سے بلا
 دور ہوجاتی ہے۔
 قدم دکھانا - (۱۔ محاورہ) چہال دکھانا (۲) چلتے بھرتے نظر کرنا۔
 قدم دھو دھو کر پینا - (۱۔ محاورہ) بہت عزت کرنا۔
 قدم ڈنگھانا - (۱۔ محاورہ) لاکھڑانا۔ لغزش ہونا۔
 قدم رسول - قدم شریف - (ع۔ ا۔ مذ) وہ مکان یا جگہ جہاں رسول مقبول
 کے قدم مبارک کا نشان رکھا ہو۔
 قدم رکھنا - (۱۔ محاورہ) لا، پاؤں دھرنا۔ چلنا (۲) دخل دینا۔ مداخلت کرنا
 (۳) کوئی کام کرنے کا دعویٰ کرنا۔ (۴) کوئی کام اختیار کرنا۔ (۵) آنا
 تشریف لانا۔
 قدم رنج (فرمانا) کرنا - (۱۔ محاورہ) تشریف لانا۔
 قدم زمین پر نہ رکھنا - (۱۔ محاورہ) کمال مفروض ہونا۔
 قدم زمین سے نہ لگنا - (۱۔ محاورہ) بہت تیز چلنا۔
 قدم سر پر رکھنا - (۱۔ محاورہ) بہت تعظیم و تکریم کرنا۔
 قدم سر کاٹنا - (۱۔ محاورہ) پاؤں کاٹنا۔
 قدم کسکت چلنا - (۱۔ محاورہ) رفتار کم ہونا۔ آہستہ آہستہ چلنا۔
 قدم قدم - (ع۔ متعلق نعل) ایک ایک قدم کے فاصلے سے۔
 قدم قدم کر - (ع۔ متعلق نعل) چبے چبے چبے پر۔
 قدم قدم جانا - چلنا - (۱۔ محاورہ) آہستہ آہستہ جانا۔ سچ سچ چلنا۔
 قدم کو ہاتھ لگانا - (۱۔ محاورہ) خوشامد کرنا۔ عاجزی کرنا۔
 قدم کھوٹا ہونا - (۱۔ محاورہ) منجوس ہونا۔
 قدم کھینک کا کھینک چلنا - (۱۔ محاورہ) کمزوری پلٹنے سے لاکھڑانا۔
 قدم کے ساتھ - (ع۔ متعلق نعل) ہمراہی میں رفاقت میں۔
 قدم کاڑنا - (۱۔ محاورہ) ثابت قدم رہنا۔
 قدم کھنکھن کے رکھنا - (۱۔ محاورہ) نہایت آہستہ آہستہ۔ کمال احتیاط
 سے قدم اٹھانا۔
 قدم لگنا - (۱۔ محاورہ) (۱) پاؤں چومنا (۲) گھوڑے کو قدم چال چلنا آجانا۔ (۳) کسی
 کی پناہ یا حفاظت میں جگہ کرنا۔
 قدم لینا - (۱۔ محاورہ) (۱) ادب یا تعظیم سے پیروں کو ہاتھ لگانا۔ پاؤں کو بوسہ
 دینا (۲) اُستادانہ۔ دوسرے کے کمال کا اعتراف کرنا (۳) خوشامد کرنا۔
 احسان ماننا (۴) استقبال کرنا تیز قدم کرنا۔
 قدم مارنا - (۱۔ محاورہ) کوشش کرنا۔ دور دور چل کرنا (۲) کسی کام میں چلنا۔
 رکھنا (۳) جلد جانا۔ تیز جانا۔
 قدم ملانا - (۱۔ محاورہ) پاؤں سے پاؤں ملانا۔
 قدم نکالنا - (۱۔ محاورہ) باہر آنا جانا (۲) گھوڑے کو چال سکھانا۔
 قدم نہ اٹھنا - (۱۔ محاورہ) دہشت یا خوف کے مارے پاؤں نہ اٹھنا۔ لگے
 نہ چل سکتا۔ عاجز ہونا۔

قدیمی - رقی - دیسی - سی (ف صحت) قدیم کا۔ سدا کا۔ ہمیشہ کا۔ پھرانا۔
قدیمی نمک حواری - [۱۔ مذ] پھرانا ملازم - وفادار۔

قدم نہ پڑنا - [۱۔ محاورہ] جانے کی ہمت نہ ہونا۔
قدم نہ چھوڑنا - [۱۔ محاورہ] ساتھ نہ چھوڑنا۔ رفاقت میں رہنا۔
قدم نہ رکھ سکتا - [۱۔ محاورہ] جانہ سکتا۔
قدم نہ رکھنے دینا - [۱۔ محاورہ] جانے نہ دینا۔
قدم لگ - [ع صفت] قدیم کی معنی۔

ق - ذ

قدموں پر صدقے کرنا (دارنا) - [۱۔ محاورہ] کمال اطاعت اور فرماں برداری ظاہر کرنا۔

قذف - [ع۔ ۱۔ مذ] شرعاً کسی پر زنا کی جہت لگانا، مار، گالی دینا۔

قدموں تک رسائی ہونا - [۱۔ محاورہ] خدمت میں باریابی ہونا۔
قدموں تلے آنکھیں بچھانا - [۱۔ محاورہ] بہت تعظیم و عزت اور آؤ بھگت کرنا۔

ق - ر

قدموں سے لگا رہنا - [۱۔ محاورہ] فرما نہ بردار۔ مطیع ہونا۔
قدموں پر گرنا - [۱۔ محاورہ] پیروں پر سر رکھنا۔ پاؤں چومنا۔
قدموں سے لگنا - [۱۔ محاورہ] پاؤں چومنا۔ [۲۔ جناب تعظیم و کرم سے پیش آنا۔

قریب - [ع۔ ۱۔ مذ] (صفت) ہمانی۔
قریبی - [ع۔ ۱۔ مذ] دیکھتے قریب جس کی یہ معنی ہے۔
قریب اور - [ع۔ ۱۔ مذ] دیکھتے قریب جس کی یہ معنی ہے۔
قریباً دین - [ق۔ ۱۔ مذ] با۔ دین، [ع۔ ۱۔ مذ] (صفت) نجات الادویہ۔ دواؤں کی ڈکھتری۔

قدموں سے لگے پڑے ہیں - [۱۔ محاورہ] [۱] تعلق اور مطیع ہیں۔ فرما نہ بردار ہیں [۲] زبردست ہیں۔ رعیت ہیں۔ ماتحت ہیں۔

قرابت - [ق۔ ۱۔ مذ] (صفت) [۱] قرابت، نزدیکی [۲] رشتہ داری۔
قرابت کھھرنا - [۱۔ محاورہ] نسبت قرار پانا۔ منگنی ہونا۔
قرابت دار - [ع۔ ۱۔ مذ] رشتہ دار۔ عزیز و اقارب۔
قرابت داری - [ع۔ ۱۔ مذ] رشتہ داری۔
قرابت طربی - [ع۔ ۱۔ مذ] [۱] باہم قریبی رشتہ داری۔
قرابت قریبہ - [ع۔ ۱۔ مذ] (صفت) قریب کی رشتہ داری۔
قرابت مستقیمہ - [ع۔ ۱۔ مذ] [۱] پختہ رشتہ۔ [۲] پشت در پشت رشتہ داری۔

قدموں سے لگے رہنا - [۱۔ محاورہ] ہر وقت ساتھ رہنا۔ پاس سے کبھی جدا نہ ہونا۔

قرابتی - [ق۔ ۱۔ مذ] (صفت) [۱] رشتہ دار۔ [۲] رشتہ دار۔ [۳] رشتہ دار۔ [۴] رشتہ دار۔ [۵] رشتہ دار۔ [۶] رشتہ دار۔ [۷] رشتہ دار۔ [۸] رشتہ دار۔ [۹] رشتہ دار۔ [۱۰] رشتہ دار۔

قدموں کو چھوڑنا - [۱۔ محاورہ] ساتھ چھوڑنا۔ کسی سے علیحدہ ہونا۔
قدموں کی بدولت - [۱۔ متعلق فعل] جنور کے طفیل میں۔
قدموں کے تلے سے زمین نکل جانا - [۱۔ محاورہ] سخت گھبراہٹ اور پریشانی ہونا۔

قرابتی - [ق۔ ۱۔ مذ] (صفت) [۱] رشتہ دار۔ [۲] رشتہ دار۔ [۳] رشتہ دار۔ [۴] رشتہ دار۔ [۵] رشتہ دار۔ [۶] رشتہ دار۔ [۷] رشتہ دار۔ [۸] رشتہ دار۔ [۹] رشتہ دار۔ [۱۰] رشتہ دار۔

قدموں کی بلبلا - [۱۔ صفت] [۱] مصیبت جو سدا دم کے ساتھ ہے۔
قدموں میں - [۱۔ متعلق فعل] زیر سایہ۔

قرابتی - [ق۔ ۱۔ مذ] (صفت) [۱] رشتہ دار۔ [۲] رشتہ دار۔ [۳] رشتہ دار۔ [۴] رشتہ دار۔ [۵] رشتہ دار۔ [۶] رشتہ دار۔ [۷] رشتہ دار۔ [۸] رشتہ دار۔ [۹] رشتہ دار۔ [۱۰] رشتہ دار۔

قدموں میں بچھا جانا - [۱۔ محاورہ] بہت تعظیم کرنا۔
قدم رقی - [ع۔ ۱۔ مذ] [۱] گنگلی۔ [۲] پھرانا۔ [۳] گنگلی۔ [۴] گنگلی۔ [۵] گنگلی۔ [۶] گنگلی۔ [۷] گنگلی۔ [۸] گنگلی۔ [۹] گنگلی۔ [۱۰] گنگلی۔

قرابتی - [ق۔ ۱۔ مذ] (صفت) [۱] رشتہ دار۔ [۲] رشتہ دار۔ [۳] رشتہ دار۔ [۴] رشتہ دار۔ [۵] رشتہ دار۔ [۶] رشتہ دار۔ [۷] رشتہ دار۔ [۸] رشتہ دار۔ [۹] رشتہ دار۔ [۱۰] رشتہ دار۔

قدموں میں - [۱۔ متعلق فعل] [۱] گنگلی۔ [۲] پھرانا۔ [۳] گنگلی۔ [۴] گنگلی۔ [۵] گنگلی۔ [۶] گنگلی۔ [۷] گنگلی۔ [۸] گنگلی۔ [۹] گنگلی۔ [۱۰] گنگلی۔

قرابتی - [ق۔ ۱۔ مذ] (صفت) [۱] رشتہ دار۔ [۲] رشتہ دار۔ [۳] رشتہ دار۔ [۴] رشتہ دار۔ [۵] رشتہ دار۔ [۶] رشتہ دار۔ [۷] رشتہ دار۔ [۸] رشتہ دار۔ [۹] رشتہ دار۔ [۱۰] رشتہ دار۔

قدموں میں - [۱۔ متعلق فعل] [۱] گنگلی۔ [۲] پھرانا۔ [۳] گنگلی۔ [۴] گنگلی۔ [۵] گنگلی۔ [۶] گنگلی۔ [۷] گنگلی۔ [۸] گنگلی۔ [۹] گنگلی۔ [۱۰] گنگلی۔

قرابتی - [ق۔ ۱۔ مذ] (صفت) [۱] رشتہ دار۔ [۲] رشتہ دار۔ [۳] رشتہ دار۔ [۴] رشتہ دار۔ [۵] رشتہ دار۔ [۶] رشتہ دار۔ [۷] رشتہ دار۔ [۸] رشتہ دار۔ [۹] رشتہ دار۔ [۱۰] رشتہ دار۔

قدموں میں - [۱۔ متعلق فعل] [۱] گنگلی۔ [۲] پھرانا۔ [۳] گنگلی۔ [۴] گنگلی۔ [۵] گنگلی۔ [۶] گنگلی۔ [۷] گنگلی۔ [۸] گنگلی۔ [۹] گنگلی۔ [۱۰] گنگلی۔

قرابتی - [ق۔ ۱۔ مذ] (صفت) [۱] رشتہ دار۔ [۲] رشتہ دار۔ [۳] رشتہ دار۔ [۴] رشتہ دار۔ [۵] رشتہ دار۔ [۶] رشتہ دار۔ [۷] رشتہ دار۔ [۸] رشتہ دار۔ [۹] رشتہ دار۔ [۱۰] رشتہ دار۔

قدموں میں - [۱۔ متعلق فعل] [۱] گنگلی۔ [۲] پھرانا۔ [۳] گنگلی۔ [۴] گنگلی۔ [۵] گنگلی۔ [۶] گنگلی۔ [۷] گنگلی۔ [۸] گنگلی۔ [۹] گنگلی۔ [۱۰] گنگلی۔

قرابتی - [ق۔ ۱۔ مذ] (صفت) [۱] رشتہ دار۔ [۲] رشتہ دار۔ [۳] رشتہ دار۔ [۴] رشتہ دار۔ [۵] رشتہ دار۔ [۶] رشتہ دار۔ [۷] رشتہ دار۔ [۸] رشتہ دار۔ [۹] رشتہ دار۔ [۱۰] رشتہ دار۔

قدموں میں - [۱۔ متعلق فعل] [۱] گنگلی۔ [۲] پھرانا۔ [۳] گنگلی۔ [۴] گنگلی۔ [۵] گنگلی۔ [۶] گنگلی۔ [۷] گنگلی۔ [۸] گنگلی۔ [۹] گنگلی۔ [۱۰] گنگلی۔

قدموں میں - [۱۔ متعلق فعل] [۱] گنگلی۔ [۲] پھرانا۔ [۳] گنگلی۔ [۴] گنگلی۔ [۵] گنگلی۔ [۶] گنگلی۔ [۷] گنگلی۔ [۸] گنگلی۔ [۹] گنگلی۔ [۱۰] گنگلی۔

قدموں میں - [۱۔ متعلق فعل] [۱] گنگلی۔ [۲] پھرانا۔ [۳] گنگلی۔ [۴] گنگلی۔ [۵] گنگلی۔ [۶] گنگلی۔ [۷] گنگلی۔ [۸] گنگلی۔ [۹] گنگلی۔ [۱۰] گنگلی۔

قدموں میں - [۱۔ متعلق فعل] [۱] گنگلی۔ [۲] پھرانا۔ [۳] گنگلی۔ [۴] گنگلی۔ [۵] گنگلی۔ [۶] گنگلی۔ [۷] گنگلی۔ [۸] گنگلی۔ [۹] گنگلی۔ [۱۰] گنگلی۔

قرار داد مجرم۔ (۱۔ مذ) بعد از تحقیقات مجرم پر مجرم ضابطہ کا حکم لگایا جاتا ہے۔ تجویز مجرم۔
 قرار دے کر کف آزادگان نیکرو مال، نہ صبر در دل عاشق نہ آب
 در عز بال۔ (فت۔ نیشل) کسی کے ہاتھ میں روپیہ۔ عاشق کے دل میں صبر۔
 اور پھینچ میں پانی نہیں ٹھہرتا۔
 قرار دینا۔ (۱۔ محاورہ) مقرر ہونا، طہرنا۔
 قرار گاہ۔ (ع۔ ف۔ ۱۔) مسٹ (ٹھہرنے کی جگہ۔
 قرار لینا۔ (۱۔ محاورہ) ٹھہرنا۔ دم لینا۔ آرام کرنا۔
 قرار ملا۔ (ع۔ ف۔ ۱۔) مذاق اور قرار بعد میاں۔
 قرار واقعی۔ (ع۔ صفت) (۱۔) بخوبی، بہ طرح۔ ایمان کے ساتھ۔ جیسا چاہیے۔
 (۲۔) اصل میں مستقل۔

قرار یونہی۔ (۱۔ محاورہ) چین یونہی، دلچسپی یونہی، ۲۔ قرار یونہی۔ عمدہ ہونا۔
 قرصن۔ (ق۔ راضی)، (ع۔ ۱۔) صحت، آئینی شرکت جس میں ایک کاروباریاد
 دوسرے کی محنت ہو۔
 قرض۔ (ق۔ راضی) (ع۔ ۱۔) مذ (۱۱۔) کرن، ریزہ، تراشا۔ (۲۔) سوسنے
 چاندی کا ٹکڑا۔
 قرقر۔ (ق۔ راضی) (ع۔ ۱۔) مذ (۱۱۔) قرقرہ کی جمع بیٹ بولنا، بیٹ میں گڑ بولنا۔
 قرآن۔ (ع۔ ۱۔) مذ (۱۱۔) چاندی کا ایک سکہ جو سوسنے کے تومان کا دوواں
 حصہ ہوتا ہے۔
 قرآن۔ (ق۔ راضی) (ع۔ ۱۔) مذ (۱۱۔) نزدیکی، قربت (۲۔) دوستوں کا ایک
 بروج میں جمع ہونا، مکن سکرہ۔
 قرآن السعدین۔ (۱۱۔) دو مبارک ستاروں کا ایک بروج میں جمع ہونا۔ (۲۔)
 قرینک، خنکون، بیک ساعت (۳۔) در جیسے آدمیوں کا اجتماع۔
 قرآن۔ (ق۔ راضی) (ع۔ ۱۔) مذ (۱۱۔) کلام اللہ۔ کلام مجید۔ وہ کلام الہی جو حضرت
 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔
 قرآن اٹھانا۔ قرآن پر ہاتھ (دھرنے) رکھنا۔ (۱۔ محاورہ) قرآن شریف
 ہاتھ میں لے کر تم لگانا۔
 قرآن پر قرآن رکھنے کا کیا مضافتہ۔ (۱۱۔) مثل (۱۱۔) تم تیرے اشخاص یا ہم سے
 کچھ کہہ سکتے ہیں۔ قرم میں یا ہم شادی بیاہ ہونا کوئی
 مہیب نہیں۔

قرآن پر ہاتھ رکھنا۔ (۱۔ محاورہ) اکتا یا قرآن کی قسم لگانا۔
 قرآن ٹھکانا کرنا۔ (۱۱۔) کلام مجید ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر پڑنا۔ اس صورت
 میں قرآن شریف کے برابر غلہ قل کر خیرات کرتے ہیں۔ قرآن شریف
 کے بوشیہ اور اق کو کسی پاک زمین میں دفن کرنا۔
 قرآن تمہ کرنا۔ (۱۔ محاورہ) (۱۱۔) تمہ قرآن پڑھ لینا۔ (۲۔) بضرع ایصال ثواب
 پورا قرآن پڑھنا۔

قرآن غولی۔ (ع۔ ف۔) صفت (قرآن پڑھنے والا۔
 قرآن غالی۔ (ع۔ ف۔) صفت (قرآن پڑھنا۔
 قرآن درمیان ہونا۔ (۱۔ محاورہ) قرآن کی قسم ہونا۔
 قرآن سر پر رکھنا۔ (۱۔ محاورہ) قرآن سر پر رکھ کر قسم کھانا

قرآن کا جامہ بہشتنا۔ (۱۔ محاورہ) نیک، بارسا اور قابل اعتماد ہونا۔
 قرآن کا دور۔ (۱۔ مذ) حافظ کا قرآن مجید گواہ اس غرض سے پڑھنا کہ
 مبادا سبھل جائے۔
 قرآن کی مار۔ (۱۳۔) بددعا قرآن کی پھلکار ٹیسے۔
 قرآن کی ہوا دینا۔ بیکار کو قرآن کے دوقوں کی ہوا دینا، ہلکا سے سمت ہیر۔
 قرآن میں نام نکلوانا۔ (۱۳۔ محاورہ) بیچے کا نام قرآن کھول کر اول حرف
 کے مطابق رکھنا

قرآن ہیر کرنا۔ (۱۔ محاورہ) (عقلم، قرآن فروخت کرنا۔
 قرآنی۔ (ق۔ آ۔) (ع۔) صفت (قرآن سے منسوب۔
 قرادل۔ (ق۔ ز۔) (ع۔ ۱۔) مذ (۱۱۔) بندوبست سے نکلنا، کھیلنے والا۔
 بندوبستی (۲۔) وہ فوجی دستہ جو آگے بڑھ کر دشمن کی نقل و حرکت پر
 نگاہ رکھتا ہے۔
 قرآن راق۔ (ق۔ راضی) (ع۔ ۱۔) مذ (۱۱۔) قرینہ کی جمع۔
 قریب۔ (ع۔ ۱۔) مذ (۱۱۔) پاس، نزدیک، مرتبہ، منزلت۔
 قریب روحانی۔ (ع۔ ۱۔) مذ (۱۱۔) فوجی نزدیک، باطنی نزدیک۔
 قریب و خوار۔ (ع۔ ۱۔) مذ (۱۱۔) پاس پاس، گرو و نواح، بارگرو۔
 قریبان۔ (ق۔ راضی) (ع۔ ۱۔) مذ (۱۱۔) وہ چیز جو خدا کے نکالی کی راہ میں تصدق کی جائے۔
 بیہینٹ، صدقہ (۲۱۔) صدقہ، بیہاری۔ بخیر، داری، بخیر۔
 قریبان جانا، قریبان ہونا۔ (۱۔ محاورہ) (۱۱۔) تار ہونا، داری ہونا صدقہ ہونا۔
 (۲۔) عاشق ہونا۔

قریبان جاؤں (جھانسیے)۔ (۱۱۔) مقولہ) خوشامد اور طنز کے طور پر کہتے ہیں۔
 قریبان کرنا۔ (۱۔ محاورہ) (۱۱۔) تصدق کرنا، فدا کرنا، دان کرنا، ایک کلمہ سخاوت۔
 قریبان کرنا، لکھ بکھ (تقریر، صدقہ کھل، لگ، لگاؤں۔
 قریبان گاہ۔ (ع۔ ۱۔) صفت (قریبان ہونے کی جگہ۔ مذبح، مقبل۔
 قریبان شوم ات۔ مقولہ) تجھ پر قریبان ہوں، داری جاؤں۔
 قریبانی۔ (ق۔ راضی) (ع۔ ۱۔) صفت (۱۱۔) ذوق حلال، ۲۔) وہ جانور جو خدا کی راہ میں
 ذبح کیا جائے، ۲۔) عبد اللہ غنی کو بکتے دہتے ذبح کرنا۔

قریبانی کرنا۔ (۱۔ محاورہ) (۱۱۔) دوسروں کے نفع کی خاطر اپنے نفع کو چھ
 دینا، خدا کی راہ میں ضل جانور کو ذبح کرنا۔
 قریبیت۔ (ق۔ راضی) (ع۔ ۱۔) صفت (قریبان ہونے کی، پاس، قربت، رشتہ۔
 قریبیت کرنا۔ مباحثت کرنا عورت سے محبت کرنا۔
 قریبوں۔ (ع۔ ۱۔) مذ (۱۱۔) زین کا ہرنا سنہین کھٹانے کا حصہ جس پر گھانا کھی
 جاتی ہے۔
 قریبونی۔ (ع۔ ۱۔) صفت (رشتہ، متعلق، قربت۔
 قرۃ العین۔ (ق۔ راضی) (ع۔ ۱۱۔) صفت (۱۱۔) وہ چیز جس سے آنکھوں میں
 ملاوت اور ٹھنک پیدا ہو، ۲۔) چھانڈا، بیٹا، نور چشم۔
 قرح (قرحہ)۔ (ع۔ ۱۱۔) صفت (۱۱۔) زخم، کھاؤ۔ وہ زخم جس میں پیپ پڑ گئی
 ہو۔ ناسور (۳۔) سڑنا، سوزاک، لاعلاج سوزاک۔
 قرحہ (پڑ جاننا، مچا جانا)۔ (عصر مرکب) زخم پڑ جانا۔ زخم میں پیپ پڑ جاننا
 چننا سوزا ہونا، چننا۔

قریبان جاؤں (جھانسیے)۔ (۱۱۔) مقولہ) خوشامد اور طنز کے طور پر کہتے ہیں۔
 قریبان کرنا۔ (۱۔ محاورہ) (۱۱۔) تصدق کرنا، فدا کرنا، دان کرنا، ایک کلمہ سخاوت۔
 قریبان کرنا، لکھ بکھ (تقریر، صدقہ کھل، لگ، لگاؤں۔
 قریبان گاہ۔ (ع۔ ۱۔) صفت (قریبان ہونے کی جگہ۔ مذبح، مقبل۔
 قریبان شوم ات۔ مقولہ) تجھ پر قریبان ہوں، داری جاؤں۔
 قریبانی۔ (ق۔ راضی) (ع۔ ۱۔) صفت (۱۱۔) ذوق حلال، ۲۔) وہ جانور جو خدا کی راہ میں
 ذبح کیا جائے، ۲۔) عبد اللہ غنی کو بکتے دہتے ذبح کرنا۔

قریبانی کرنا۔ (۱۔ محاورہ) (۱۱۔) دوسروں کے نفع کی خاطر اپنے نفع کو چھ
 دینا، خدا کی راہ میں ضل جانور کو ذبح کرنا۔
 قریبیت۔ (ق۔ راضی) (ع۔ ۱۔) صفت (قریبان ہونے کی، پاس، قربت، رشتہ۔
 قریبیت کرنا۔ مباحثت کرنا عورت سے محبت کرنا۔
 قریبوں۔ (ع۔ ۱۔) مذ (۱۱۔) زین کا ہرنا سنہین کھٹانے کا حصہ جس پر گھانا کھی
 جاتی ہے۔
 قریبونی۔ (ع۔ ۱۔) صفت (رشتہ، متعلق، قربت۔
 قرۃ العین۔ (ق۔ راضی) (ع۔ ۱۱۔) صفت (۱۱۔) وہ چیز جس سے آنکھوں میں
 ملاوت اور ٹھنک پیدا ہو، ۲۔) چھانڈا، بیٹا، نور چشم۔
 قرح (قرحہ)۔ (ع۔ ۱۱۔) صفت (۱۱۔) زخم، کھاؤ۔ وہ زخم جس میں پیپ پڑ گئی
 ہو۔ ناسور (۳۔) سڑنا، سوزاک، لاعلاج سوزاک۔
 قرحہ (پڑ جاننا، مچا جانا)۔ (عصر مرکب) زخم پڑ جانا۔ زخم میں پیپ پڑ جاننا
 چننا سوزا ہونا، چننا۔

قریبان جاؤں (جھانسیے)۔ (۱۱۔) مقولہ) خوشامد اور طنز کے طور پر کہتے ہیں۔
 قریبان کرنا۔ (۱۔ محاورہ) (۱۱۔) تصدق کرنا، فدا کرنا، دان کرنا، ایک کلمہ سخاوت۔
 قریبان کرنا، لکھ بکھ (تقریر، صدقہ کھل، لگ، لگاؤں۔
 قریبان گاہ۔ (ع۔ ۱۔) صفت (قریبان ہونے کی جگہ۔ مذبح، مقبل۔
 قریبان شوم ات۔ مقولہ) تجھ پر قریبان ہوں، داری جاؤں۔
 قریبانی۔ (ق۔ راضی) (ع۔ ۱۔) صفت (۱۱۔) ذوق حلال، ۲۔) وہ جانور جو خدا کی راہ میں
 ذبح کیا جائے، ۲۔) عبد اللہ غنی کو بکتے دہتے ذبح کرنا۔

قریبانی کرنا۔ (۱۔ محاورہ) (۱۱۔) دوسروں کے نفع کی خاطر اپنے نفع کو چھ
 دینا، خدا کی راہ میں ضل جانور کو ذبح کرنا۔
 قریبیت۔ (ق۔ راضی) (ع۔ ۱۔) صفت (قریبان ہونے کی، پاس، قربت، رشتہ۔
 قریبیت کرنا۔ مباحثت کرنا عورت سے محبت کرنا۔
 قریبوں۔ (ع۔ ۱۔) مذ (۱۱۔) زین کا ہرنا سنہین کھٹانے کا حصہ جس پر گھانا کھی
 جاتی ہے۔
 قریبونی۔ (ع۔ ۱۔) صفت (رشتہ، متعلق، قربت۔
 قرۃ العین۔ (ق۔ راضی) (ع۔ ۱۱۔) صفت (۱۱۔) وہ چیز جس سے آنکھوں میں
 ملاوت اور ٹھنک پیدا ہو، ۲۔) چھانڈا، بیٹا، نور چشم۔
 قرح (قرحہ)۔ (ع۔ ۱۱۔) صفت (۱۱۔) زخم، کھاؤ۔ وہ زخم جس میں پیپ پڑ گئی
 ہو۔ ناسور (۳۔) سڑنا، سوزاک، لاعلاج سوزاک۔
 قرحہ (پڑ جاننا، مچا جانا)۔ (عصر مرکب) زخم پڑ جانا۔ زخم میں پیپ پڑ جاننا
 چننا سوزا ہونا، چننا۔

قرقو۔ (ع۔ احد) نند۔ بندن۔
 قرقش۔ (ع۔ ارمزم) ایک فونٹک ہمیری جالور۔ واصل مجلی۔
 قرقشی۔ (ق۔ ریشی) (ع۔ صفت) قرقشی۔ قرقش سے منسوب۔
 قرقس۔ (ع۔ احد) لایا گیا، لگا گیا، لگا لگا کر چمکی کی طرح (۲) دوا کی لکھا۔
 قرقش۔ (ع۔ ارمزم) اُدھار۔ مانگا ہوا۔ مستعار۔
 قرقش آمانا۔ (۱۔ ع۔ ارمزم) کسی سے یا ہوا لین کرنا۔ اُدھار بیباق کرنا۔ آتا ہوا چکانا۔
 قرض اٹھانا۔ (۱۔ ع۔ ارمزم) اُدھار لینا۔ مستعار لینا۔
 قرض ادا کرنا۔ (۱۔ ع۔ ارمزم) قرض چکانا۔ اُدھار لینا ہوا روپیہ بیباق کرنا۔
 قرض حسن (حسنہ)۔ (ع۔ ۱۔ ع۔ ارمزم) اُدھار دینے والا۔ سود قرض۔
 قرض خواہ (ع۔ ق۔ ۱۔ ع۔ ارمزم) اُدھار دینے والا۔ لین دار۔
 قرض دار۔ (ع۔ ۱۔ ع۔ ارمزم) اُدھار لیننے والا۔ مفروض۔ لین دار۔
 قرض دار چھائی پر سوار۔ (۱۔ ع۔ ۱۔ ع۔ ارمزم) اُدھار لیننے والا۔ مفروض۔ لین دار۔
 قرض داری۔ (ع۔ ۱۔ ع۔ ۱۔ ع۔ ارمزم) قرض دار ہونا۔ مفروض ہونا۔
 قرض کا ٹھکانا۔ (۱۔ ع۔ ارمزم) اُدھار لیننا۔
 قرض کھانا۔ (۱۔ ع۔ ارمزم) اُدھار لیننا۔
 قرض لینا۔ (۱۔ ع۔ ارمزم) اُدھار لیننا۔
 قرض ہوتا۔ (۱۔ ع۔ ارمزم) اُدھار کا سہارا ہونا۔
 قرضہ۔ (ع۔ ۱۔ ع۔ ارمزم) اُدھار۔ لین دار۔
 قرضہ آجانا۔ (۱۔ ع۔ ارمزم) قرض کی ادائیگی ہونا۔
 قرضہ کشی۔ (۱۔ ع۔ ارمزم) دستاویز کی رو سے قرضہ۔
 قرضہ چکانا۔ (۱۔ ع۔ ارمزم) قرضہ ادا کرنا۔
 قرضہ منقضي المیاد۔ (ع۔ ۱۔ ع۔ ارمزم) وہ قرضہ جس کی میاد گذر چکی ہو۔
 قرطاس۔ (ع۔ ۱۔ ع۔ ارمزم) دستاویز کاغذ۔ جمع۔ قرطاس۔
 قرطاس ابيض۔ (۱۔ ع۔ ارمزم) سفید کاغذ۔ وہ تحریر جو حکومت کی طرف سے عام اطلاع کے لیے شائع کی جاتی ہے۔
 قرع۔ (ع۔ ۱۔ ع۔ ارمزم) کدو (۲) عرق کھینچنے کا برتن۔
 قرع ابيض۔ (ع۔ ۱۔ ع۔ ارمزم) عرق کھینچنے کا بھینکا۔
 قرعہ۔ (ع۔ ۱۔ ع۔ ارمزم) پالسنہ نام کی پرچی نکالنا۔
 قرعہ اندازی۔ (ع۔ ۱۔ ع۔ ارمزم) پالسنہ چھیننا (۲) بہت سے لوگوں میں سے ایک کا نام نکالنے کا طریقہ۔
 قرعہ چھیننا (قالتنا)۔ (۱۔ ع۔ ارمزم) پالسنے کے ذریعہ فال لینا۔ چھی ڈالنا۔ دانہ چھیننا۔
 قرعہ فال بنام من دولانہ نروند۔ (ع۔ ۱۔ ع۔ ارمزم) قرعہ میں ہر پھر کے میرا ہی نام لکھتا ہے۔ چھی سے کام لیا جاتا ہے (۲) جس کے ذمے کوئی کام اپنے وہ اپنی نسبت کرتا ہے۔
 قرق۔ (ع۔ ۱۔ ع۔ ارمزم) ضعیفی (۲) روک۔ جماعت۔ بندش۔
 قرقی ائین۔ (ع۔ ۱۔ ع۔ ارمزم) محکمہ مال کا ایک عمدہ۔ ناظر عدالت۔
 قرق حسیل۔ (ع۔ ۱۔ ع۔ ارمزم) مانگاری وصول کرنے کے لیے قرق۔
 قرق کرنا۔ (ع۔ ۱۔ ع۔ ارمزم) ضبط کرنا۔ کسی عرق یا قرضے کی بابت مال یا

حائیداد کو تحویل میں لینا۔
 قرق نامہ۔ (ع۔ ۱۔ ع۔ ارمزم) ضعیفی کا پرانا۔
 قرقرا۔ (ع۔ ۱۔ ع۔ ارمزم) ایک چھوٹا سا پرنڈ۔
 قرقی۔ (ع۔ ۱۔ ع۔ ارمزم) ضعیفی۔ روک۔ جماعت۔
 قرقی بھجانا۔ (ع۔ ۱۔ ع۔ ارمزم) ضبط کے سوتے مال پر پھرا بھجانا (۲) روک لگ کرنا۔
 قرقی بھیننا۔ (ع۔ ۱۔ ع۔ ارمزم) مال کی ضعیفی کے لیے ناظر عدالت کو بھیجنا۔ (۲) ضعیفی کرنا۔
 قرقی دار۔ (ع۔ ۱۔ ع۔ ارمزم) قرقی کرنے والا۔
 قرقی قبل فیصلہ۔ (ع۔ ۱۔ ع۔ ارمزم) ضعیفی جو فیصلے سے پہلے ہوتی ہے تاکہ مدعا علیہ لینے مال کو ادا نہ کر سکے۔
 قرقی کا پرانا۔ (ع۔ ۱۔ ع۔ ارمزم) ضعیفی نامہ۔ مال یا رقم وغیرہ ضبط کر لینے کا تحریری حکم۔
 قرقم۔ (ع۔ ۱۔ ع۔ ارمزم) قرقم ساق کا مخفف۔ (۱۔ ع۔ ۱۔ ع۔ ارمزم) بھڑوا۔ دیوت۔
 ۲۔ باچی۔ کینڈہ۔
 قرقمزا۔ (ع۔ ۱۔ ع۔ ارمزم) میر ہوئی کی مانند ایک کھیل جس سے سُرخ ریشم ریشتے ہیں۔
 قرقمزی۔ (ع۔ ۱۔ ع۔ ارمزم) قرقمزا سے نسبت رکھنے والا۔ (۲) لال۔
 قرقم ساق۔ (ع۔ ۱۔ ع۔ ارمزم) ساق (۱) بھڑوا۔ دیوت (۲) باچی۔ کینڈہ۔
 قران۔ (ع۔ ۱۔ ع۔ ارمزم) ستاروں کا لاپ (۲) جھگ۔ دس۔ بارہ۔ تیس۔ اسی۔ یا ایک سو بیس برس کا زمانہ (۳) جزئی مدت زمانہ دراز (۴) سینک (۵) گیسو۔ جمع۔
 قرآن۔ (ع۔ ۱۔ ع۔ ارمزم) قرآن۔
 قرن اول۔ (ع۔ ۱۔ ع۔ ارمزم) کئی تین حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کا زمانہ۔
 قرنا۔ (ع۔ ۱۔ ع۔ ارمزم) سیٹنگ کا بنگل۔ بُری۔ حرم۔ نفیری۔
 قرنتین۔ (ع۔ ۱۔ ع۔ ارمزم) قرن۔ طی۔ (۲) (Quarantine) (کا مقرب) (۱) وہ عیبادت جس میں مسافروں یا باوردہ علاقہ کے بیماروں کو جبراً سب سے علیحدہ رکھا جاتا ہے تاکہ مرض پھیلنے نہ پائے۔
 قرنفل۔ (ع۔ ۱۔ ع۔ ارمزم) فل۔ (۲) (ع۔ ۱۔ ع۔ ارمزم) لوگ۔
 قرقولی۔ (ع۔ ۱۔ ع۔ ارمزم) قرقولی (۱) ایک قسم کی چھری جسے کمر سے باندھتے ہیں۔ شکاری چاقو (۲) شکاری پرندوں کا شکار کی گھات میں بیٹھنا۔
 قردلیاں کرنا۔ (ع۔ ۱۔ ع۔ ارمزم) فزون سپرگری دکھانا۔
 قرقون۔ (ع۔ ۱۔ ع۔ ارمزم) دیکھنے "قرن" جس کی یہ جمع ہے۔ عرصہ ہائے ورازا۔
 قرقون ادلی۔ (ع۔ ۱۔ ع۔ ارمزم) اسلام کا ابتدائی دور۔
 قرقیب۔ (ع۔ ۱۔ ع۔ ارمزم) قرقیب (ع۔ ۱۔ ع۔ ارمزم) قرقیب۔ متصل۔ (۲) رشتہ دار (۳) (تابع نقل) لگ بھگ۔ تقریباً (۴) (ع۔ ۱۔ ع۔ ارمزم) عرق میں ایک بھر کا نام۔
 قرقیب الاغتنام۔ (ع۔ ۱۔ ع۔ ارمزم) ختم ہونے کے قریب۔ ختم ہونے والا۔
 قرقیب الفہم۔ (ع۔ ۱۔ ع۔ ارمزم) جلد سمجھ میں آجانے والا۔
 قرقیب القیاس۔ (ع۔ ۱۔ ع۔ ارمزم) جلد قیاس میں آجانے والا۔ قرقیب عقل۔
 قرقیب المرگ۔ (ع۔ ۱۔ ع۔ ارمزم) مرنے کے قریب۔ (ع۔ ۱۔ ع۔ ارمزم) غلط ہے۔
 قرقیب الورقوش۔ (ع۔ ۱۔ ع۔ ارمزم) عرقیب واضح ہونے والا۔

کا قول ہے کہ قسم صرف لگانے کے لیے ہے، مثل کیلئے نہیں۔
 قسم لینا۔ (۱۔ محاورہ) عہد لینا، قرار کرنا۔ حلف اٹھانا۔ خدا کو درمیان لانا۔
 قسم ہونا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) عہد ہونا۔ (۲) مطلق انکار کرنا (۳) بالکل
 ترک ہونا (۴) حرام ہونا۔

قسم ہے۔ (۱۔ محاورہ) (۱) سوگند ہے (۲) مطلق انکار ہے۔ کچھ تعلق نہیں
 قسمیں دینا۔ (۱۔ محاورہ) سوگند پر سوگند دینا۔
 قسم۔ (ع۔ ۱۔ مؤنث) (۱) حصہ، ٹکڑا۔ (۲) جزو، جس طرح (۳) طور طریق۔
 اڈھنگ۔ طرز (۴) بانٹ۔ تقسیم۔ جمع۔ انعام۔

قسم اقل۔ (ع۔ ۱۔ صفت) بہت اقل قسم۔ اقل درجے کی چیز۔
 قسم وار۔ (۱۔ صفت) جیسے وار جنس وار
 قسمی قسمی۔ (ش۔ ماد۔ قس۔ می) (۱۔ صفت) باہمی عہد و پیمان۔

قسمت۔ (قس۔ منت) (ع۔ ۱۔ صفت) (۱) تقدیر۔ نصیب۔ بخت۔ عقدہ
 بھاگ (۲) حصہ۔ بجزہ۔ مقسوم۔ تقسیم کیا ہوا۔ (۳) صوبہ۔ فخری اصطلاح
 ضلع بنگلہ۔ علاقہ۔

قسمت آزمائی۔ (ع۔ ن۔ ۱۔ صفت) مقدر آزمانا۔ تقدیر کے
 بھروسے پر کوئی کام کرنا۔
 قسمت آزمائی کرنا۔ (۱۔ محاورہ) نصیبے کا امتحان کرنا۔ تقدیر کی
 آزمائش کرنا۔

قسمت الٹنا۔ قسمت بگڑنا۔ (۱۔ محاورہ) نصیبے کا خلاف اوجھانا۔
 قسمت اور شامت اچھانا۔
 قسمت بدلنا۔ (۱۔ محاورہ) تقدیر پھلانا۔ اچھے دن آنا۔
 قسمت بری (برگشتہ) ہونا۔ (۱۔ محاورہ) برے دن ہونا، تقدیر
 کا بھرا جانا۔

قسمت بگڑنا۔ (۱۔ محاورہ) تقدیر بگڑنا۔ بد اقبال آنا۔
 قسمت پر ہتھیار ہننا۔ (۱۔ محاورہ) تقدیر پر بھروسہ کر کے ہاتھ پر ہلانا
 قسمت بڑھتا بڑھتا پھیرے۔ (روز مرہ) عورتیں قسمت سے
 ناخوش ہو کر کہتی ہیں۔

قسمت بڑھوڑنا۔ (۱۔ محاورہ) ٹوکل کرنا، تقدیر کے حوالے کرنا۔
 قسمت (بدلتی) پھرتا۔ (۱۔ محاورہ) نصیبہ جاکنا۔ بھلے دن آنا۔
 قسمت چھوڑنا۔ (۱۔ محاورہ) برے دن آنا، مقدر بگڑنا۔

قسمت چھوڑنا۔ (۱) تکلیف دینا۔ رنج دینا۔ (۲) لڑکی کا بیاہ
 کسی خراب جگہ پر کرنا۔
 قسمت جاکنا۔ قسمت چکنا۔ قسمت رسا ہونا۔ قسمت راہ
 پر ہونا۔ (۱۔ محاورہ) اقبال یاد ہونا، دن پھرنا۔ اچھے دن آنا۔

قسمت رسا ہونا۔ (۱۔ محاورہ) اچھی قسمت ہونا۔ اچھے دن آنا۔
 قسمت سو جانا۔ (۱۔ محاورہ) برے دن آنا۔
 قسمت سے۔ (۱۔ تابع فعل) (۱) خوش نصیبی سے (۲) بد قسمتی سے۔

قسمت سیدھی ہونا۔ (۱۔ محاورہ) نصیبہ یاد ہونا۔
 قسمت کا بندا۔ (۱۔ صفت) تقدیر کا لکھا۔ نوشتہ تقدیر۔
 قسمت کا پھیر۔ (۱۔ مذ) تقدیر کا جگہ۔ بد قسمتی۔ بد اقبال۔ (ادب۔

قسمت کا بیخ۔ (۱۔ مذ) تقدیر کا دیا ہوا بیخ۔
 قسمت کا ٹکڑا۔ (۱۔ مذ) رزق جو تقدیر میں لکھا ہو۔
 قسمت کا دھننی۔ (۱۔ مذ) اقبال مند۔ صاحب نصیب
 قسمت والا۔

قسمت کا سکندر۔ (۱۔ مذ) نہایت خوش اقبال۔ بڑا
 خوش نصیب۔
 قسمت کا لکھا۔ (۱۔ مذ) نوشتہ تقدیر۔ مشیت ایزدی۔
 قسمت کا لکھا پورا ہونا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) مقسوم کا لکھا پیش آنا۔
 مصیبت پیش آنا۔

قسمت کا منہ پھیر لینا۔ (۱۔ محاورہ) قسمت بری ہوجانا۔
 قسمت کا ہیٹھا۔ (۱۔ مذ) بد نصیب۔ بد بخت۔ بیخوش۔
 قسمت کا روٹنا۔ (۱۔ محاورہ) بد قسمتی کی شکایت کرنا۔
 قسمت کھٹنا۔ (۱۔ محاورہ) نصیبہ جاکنا۔ خوش اقبال کے دن آنا۔
 قسمت کی بات۔ (۱۔ صفت) کئی بات غلط توقع ہو تو
 کہتے ہیں۔

قسمت کے بلیا (دولیا) لپکانی کھیر ہو گیا دلیا۔ (۱۔ مثل) بد نصیبی
 کچھ کا کچھ کر دیتی ہے۔
 قسمت کے کچھ کو کون میٹ سکتا ہے۔ (۱۔ مثل) جو ہونا
 ہوتا ہے، ہو کر رہتا ہے۔

قسمت کی (گڑھ) کھتی۔ (۱۔ صفت) مشکل۔
 قسمت کے ہاتھ بات ہے۔ (۱۔ محاورہ) قسمت کا لکھا ہوتا ہے
 تقدیر کی تحریر پوری ہوتی ہے۔

قسمت لڑنا۔ (۱۔ محاورہ) تقدیر کا یاد ہونا۔ حالات سازگار ہونا۔
 قسمت میں ہونا۔ (۱۔ محاورہ) تقدیر میں ہونا۔ مقدر میں ہونا۔
 قسمت والا۔ (۱۔ صفت) خوش نصیب۔ خوش قسمت۔
 قسمت بیٹھی ہوتا۔ (۱۔ محاورہ) تقدیر پڑی ہونا۔

قسمت یاد ہونا۔ (۱۔ محاورہ) تقدیر کا موافق ہونا۔
 قسمیہ (دق۔ ساجی۔ یہ) (ع۔ ۱۔ تابع فعل) اذروئے قسم۔ قسم کھا کر۔
 قسمیہ بیان کرنا۔ (۱۔ محاورہ) حلف اٹھا کر بیان کرنا۔
 قسمیہ ہونا۔ قسمی قسمی ہونا۔ عہد و پیمان ہونا۔

قسمی القلت۔ (دق۔ سنی۔ بل۔ قلیت) (ع۔ صفت) سنگدل۔
 قسمیس۔ (دق۔ سنی۔ سنی) (ع۔ ۱۔ مذ) کا دین نصاریٰ کا عالم جمع۔ قسمیس۔
 قسم۔ (ق۔ ہم۔ ۱۔ صفت) تقسیم کرنے والا۔

ق۔ش

قشیر۔ (ع۔ ۱۔ مذ) جھلکا۔ جمع۔ قشور۔
 قشیر۔ (قش۔ قش) (ق۔ ۱۔ مذ) ٹنگ۔ ٹیکا۔ صندل وغیرہ کا نشان جو
 ہندو مانتے پر لگاتے ہیں۔

قصور معاف - (۱- روز ترقہ) گستاخانہ گفتگو کی تلافی کے لیے یہ کلمہ مستعمل ہے۔

قصور مند - (ع- ف- صفت) تقصیر دار۔ گنہگار۔ خطاوار۔

قصور وار - (ع- ف- صفت) خطا کرنے والا۔ گنہگار۔

قصور ہونا - (۱- محاورہ) خطا سرزد ہونا۔

قصصہ - (قص- ص- ع) (۱- مذ) کہانی۔ داستان (افسانہ حکایت) (۲) ذکر بہان (۳) لڑائی جھگڑا۔ قصیہ۔ بھگڑا۔ جمع۔ تقصیص۔

قصصہ آخر ہونا - (۱- محاورہ) جھگڑا ختم ہونا۔

قصصہ الفضال ہونا - (۱- محاورہ) جھگڑا منقطع لڑائی ختم ہونا۔ بھگڑا بچنا۔

قصصہ ماند ہونا - (۱- محاورہ) قصہ اٹھانا۔ جھگڑا کھڑا کرنا۔

قصصہ بڑھانا - (۱- محاورہ) قصہ کو طول دینا۔ بات بڑھانا۔

قصصہ پاک کرنا - (۱- محاورہ) جھگڑا طے کرنا۔ فیصلہ چکانا۔ تسل کر ڈالنا۔ مارکر کام تمام کرنا۔

قصصہ تمام کرنا۔ (۱- محاورہ) داستان پوری کرنا۔ (۲) کام تمام کرنا۔ مار ڈالنا۔

قصصہ چکانا - (۱- محاورہ) جھگڑے کا فیصلہ کر دینا۔

قصصہ چھیننا - (۱- محاورہ) بھگڑا ختم ہونا۔ جھگڑا فیصلہ ہونا۔ غذاب دور ہونا۔

قصصہ تمام ہونا۔

قصصہ چھیننا - (۱- محاورہ) ذکر شروع کرنا۔ (۲) بھگڑے کی بات نکالنا۔

قصصہ خواں - (گو) [صفت] داستان گر۔ کہانی کہنے والا۔

افسانہ خواں۔

قصصہ خوانی - (گفت) [ع- ف- ص- ا- صفت] (۱) داستان گوئی۔ کہانی سنانا۔

قصصہ رہنا - (۱- محاورہ) جھگڑا قائم رہنا۔

قصصہ زمین بر سر زمین - (ف- ن- فعل) معاملے کا فیصلہ موقع پر ہونا چاہیے۔

قصصہ طے ہونا - (۱- محاورہ) جھگڑا بچنا۔

قصصہ فیصلہ ہونا - (۱- محاورہ) لڑائی ختم ہونا۔ جھگڑا بچنا۔

قصصہ کرتا - (۱- محاورہ) جھگڑا کرنا۔ بھگڑا کرنا۔

قصصہ کوتاہ - (ف- ع- تابع فعل) الغرض۔ مختصر یہ کہ۔ پس فقط بس۔

قصصہ کہانی - (۱- صفت) افسانہ حکایت۔ ذکر اذکار۔

قصصہ کہانی ہے - (۱- روز ترقہ) بات قابل اعتبار نہیں ہے۔

قصصہ کہنا - (۱- محاورہ) مصیبت کی طویل کہانی بیان کرنا۔ پسرائی داستان سنانا۔

قصصہ کھڑا کرنا - (۱- محاورہ) جھگڑا اٹھانا۔ فساد برپا کرنا۔

قصصہ لے بیٹھنا - (۱- محاورہ) بے موقع تذکرہ شروع کر دینا۔

قصصہ مختصر - (ف- تابع فعل) دیکھیے قصہ کوتاہ۔

قصصہ مول لینا - (۱- محاورہ) جھگڑا خریدنا۔ جان کو روگ لگانا بکھیرے میں پڑنا۔

قصصہ ماند ہونا - (۱- محاورہ) مصیبت بیان کرنا۔ دکھڑا بیان کرنا۔

قصصہ پختہ ہونا - (۱- محاورہ) جھگڑا قائم ہونا۔

قتللاق - (قتل۔ لاق) [ع- ا- مذ] وہ گرم مقام جہاں بادشاہ اور امیر سردیوں کا موسم گزاریں۔

قتشون - (رق۔ قشون) [ت- ا- مذ] (۱) فوج کا دستہ۔ (۲) فوج۔ (۳) چھاؤنی۔ کیمپ۔

ق - ص

قصاب - (قص۔ صاب) [ع- ا- مذ] ذبح کرنے والا۔ کانسے والا۔

قصاب قصابی - (ع- ا- مذ) (۱) قصابی کا پیشہ۔ قصابی خانہ۔ قصابیوں کا بازار۔ (۲) قصاب کی ٹونٹ۔

قصاب کے برتنے پر شکر پالنا - (۱- محاورہ) دوسرے کے بھروسے پر کوئی کام کرنا۔

قصابیہ - (قص۔ صاب) [ع- ا- مذ] (۱) قصابی کا پیشہ۔ قصابی خانہ۔ قصابیوں کا بازار۔ (۲) قصاب کی ٹونٹ۔

قصابیہ - (قص۔ صاب) [ع- ا- مذ] (۱) قصابی کا پیشہ۔ قصابی خانہ۔ قصابیوں کا بازار۔ (۲) قصاب کی ٹونٹ۔

قصابیہ - (قص۔ صاب) [ع- ا- مذ] (۱) قصابی کا پیشہ۔ قصابی خانہ۔ قصابیوں کا بازار۔ (۲) قصاب کی ٹونٹ۔

قصابیہ - (قص۔ صاب) [ع- ا- مذ] (۱) قصابی کا پیشہ۔ قصابی خانہ۔ قصابیوں کا بازار۔ (۲) قصاب کی ٹونٹ۔

قصابیہ - (قص۔ صاب) [ع- ا- مذ] (۱) قصابی کا پیشہ۔ قصابی خانہ۔ قصابیوں کا بازار۔ (۲) قصاب کی ٹونٹ۔

قصابیہ - (قص۔ صاب) [ع- ا- مذ] (۱) قصابی کا پیشہ۔ قصابی خانہ۔ قصابیوں کا بازار۔ (۲) قصاب کی ٹونٹ۔

قصابیہ - (قص۔ صاب) [ع- ا- مذ] (۱) قصابی کا پیشہ۔ قصابی خانہ۔ قصابیوں کا بازار۔ (۲) قصاب کی ٹونٹ۔

قصابیہ - (قص۔ صاب) [ع- ا- مذ] (۱) قصابی کا پیشہ۔ قصابی خانہ۔ قصابیوں کا بازار۔ (۲) قصاب کی ٹونٹ۔

قصابیہ - (قص۔ صاب) [ع- ا- مذ] (۱) قصابی کا پیشہ۔ قصابی خانہ۔ قصابیوں کا بازار۔ (۲) قصاب کی ٹونٹ۔

قصابیہ - (قص۔ صاب) [ع- ا- مذ] (۱) قصابی کا پیشہ۔ قصابی خانہ۔ قصابیوں کا بازار۔ (۲) قصاب کی ٹونٹ۔

قصابیہ - (قص۔ صاب) [ع- ا- مذ] (۱) قصابی کا پیشہ۔ قصابی خانہ۔ قصابیوں کا بازار۔ (۲) قصاب کی ٹونٹ۔

قصابیہ - (قص۔ صاب) [ع- ا- مذ] (۱) قصابی کا پیشہ۔ قصابی خانہ۔ قصابیوں کا بازار۔ (۲) قصاب کی ٹونٹ۔

قصابیہ - (قص۔ صاب) [ع- ا- مذ] (۱) قصابی کا پیشہ۔ قصابی خانہ۔ قصابیوں کا بازار۔ (۲) قصاب کی ٹونٹ۔

قصابیہ - (قص۔ صاب) [ع- ا- مذ] (۱) قصابی کا پیشہ۔ قصابی خانہ۔ قصابیوں کا بازار۔ (۲) قصاب کی ٹونٹ۔

قصابیہ - (قص۔ صاب) [ع- ا- مذ] (۱) قصابی کا پیشہ۔ قصابی خانہ۔ قصابیوں کا بازار۔ (۲) قصاب کی ٹونٹ۔

قصابیہ - (قص۔ صاب) [ع- ا- مذ] (۱) قصابی کا پیشہ۔ قصابی خانہ۔ قصابیوں کا بازار۔ (۲) قصاب کی ٹونٹ۔

قصابیہ - (قص۔ صاب) [ع- ا- مذ] (۱) قصابی کا پیشہ۔ قصابی خانہ۔ قصابیوں کا بازار۔ (۲) قصاب کی ٹونٹ۔

قصابیہ - (قص۔ صاب) [ع- ا- مذ] (۱) قصابی کا پیشہ۔ قصابی خانہ۔ قصابیوں کا بازار۔ (۲) قصاب کی ٹونٹ۔

قصابیہ - (قص۔ صاب) [ع- ا- مذ] (۱) قصابی کا پیشہ۔ قصابی خانہ۔ قصابیوں کا بازار۔ (۲) قصاب کی ٹونٹ۔

قصابیہ - (قص۔ صاب) [ع- ا- مذ] (۱) قصابی کا پیشہ۔ قصابی خانہ۔ قصابیوں کا بازار۔ (۲) قصاب کی ٹونٹ۔

قصابیہ - (قص۔ صاب) [ع- ا- مذ] (۱) قصابی کا پیشہ۔ قصابی خانہ۔ قصابیوں کا بازار۔ (۲) قصاب کی ٹونٹ۔

قصابیہ - (قص۔ صاب) [ع- ا- مذ] (۱) قصابی کا پیشہ۔ قصابی خانہ۔ قصابیوں کا بازار۔ (۲) قصاب کی ٹونٹ۔

قصابیہ - (قص۔ صاب) [ع- ا- مذ] (۱) قصابی کا پیشہ۔ قصابی خانہ۔ قصابیوں کا بازار۔ (۲) قصاب کی ٹونٹ۔

قصابیہ - (قص۔ صاب) [ع- ا- مذ] (۱) قصابی کا پیشہ۔ قصابی خانہ۔ قصابیوں کا بازار۔ (۲) قصاب کی ٹونٹ۔

قصابیہ - (قص۔ صاب) [ع- ا- مذ] (۱) قصابی کا پیشہ۔ قصابی خانہ۔ قصابیوں کا بازار۔ (۲) قصاب کی ٹونٹ۔

قصابیہ - (قص۔ صاب) [ع- ا- مذ] (۱) قصابی کا پیشہ۔ قصابی خانہ۔ قصابیوں کا بازار۔ (۲) قصاب کی ٹونٹ۔

قصابیہ - (قص۔ صاب) [ع- ا- مذ] (۱) قصابی کا پیشہ۔ قصابی خانہ۔ قصابیوں کا بازار۔ (۲) قصاب کی ٹونٹ۔

قصابیہ - (قص۔ صاب) [ع- ا- مذ] (۱) قصابی کا پیشہ۔ قصابی خانہ۔ قصابیوں کا بازار۔ (۲) قصاب کی ٹونٹ۔

قیصے میں پڑنا۔ (۱- محاورہ) جھگڑے میں مبتلا ہونا۔

قیصہ ہونا۔ (۱- محاورہ) جھگڑا ہونا۔ فساد ہونا۔

قصور سی۔ (ق۔ بی۔ ح۔ می۔ ذ۔) منہ قصور کہتا ہے۔ کمی۔

قیصیدہ۔ (ق۔ بی۔ ح۔ می۔ ذ۔) منہ نظم کہتے ہیں جس میں کسی کی تعریف یا بوجہ اس کے پیلے دونوں مغزوں اور ہر شعر کے آخری مصرعے میں

قافیے کا التزام ہوتا ہے۔ جمع۔ قیصائد۔

قیصیر۔ (ق۔ بی۔ ح۔ می۔ ذ۔) صفت۔ پست قدم۔ کوتاہ۔

ق - ض

قضا۔ (ق۔ ض۔ ع۔ ا۔) منہ (۱) محکمہ، حکم خدا۔ مشیت الہی۔ (۲) زمان الہی۔

(۳) تقدیر۔ قسمت (۴) موت۔ وفات۔ (۵) اہل (۶) وہ عبادت جو مقررہ وقت کے بعد ادا کی جائے۔

قضا آنا۔ (۱- محاورہ) موت آنا۔

قضا ادا کرنا۔ (۱- محاورہ) چھوٹی ہوئی نماز پڑھنا۔

قضا بھرنا۔ (۱- محاورہ) قضا ادا کرنا۔ چھوٹی ہوئی عبادت ادا کرنا۔

قضا پڑھنا۔ (۱- محاورہ) چھوٹی ہوئی نماز پڑھنے کا وقت ادا کرنا۔

قضا پھر پھر آتی ہے۔ (۱- محاورہ) موت قریب ہے۔

قضا طینا۔ (۱- محاورہ) موت سے بچ جانا۔

قضا دامنگیر ہونا۔ (۱- محاورہ) موت کا پیچھے پڑنا۔ موت آنا۔

قضا ادا۔ (ق۔ ض۔ ع۔ ا۔) منہ (۱) اتفاقاً۔ (۲) ایک۔

قضا سر پر سوار ہونا۔ قضا سر پر کھیلنا۔ (۱- محاورہ) موت کا سر پر شہنا

موت سر پر سوار ہونا۔

قضا سے بچا رہنا نہیں۔ (۱- محاورہ) موت کا کوئی علاج نہیں ہوتا

سے کوئی نہیں ہوتا۔

قضا عند التمر۔ (ق۔ ض۔ ع۔ ا۔) منہ (۱) دیکھنے کے وقت۔

قضا کا بیخام۔ (ق۔ ض۔ ع۔ ا۔) منہ (۱) موت کے آثار۔

قضا کا تہ۔ اتفاقاً۔

قضا کا سامنا۔ (۱- محاورہ) موت کا سامنا۔ سخت خطرہ ہے حد پریشانی۔

قضا سر پر بکار آنا۔ (۱- محاورہ) موت قریب آنا۔ (۲) شامت آنا۔

قضا کا فرقتہ۔ (۱- محاورہ) موت کا فرشتہ۔ ملک الموت۔

قضا کا (بھینچ) گھیر کر لانا۔ (۱- محاورہ) موت کا پیچھے پڑ کر مرنے کی جگہ

آنا۔ اس وقت کہتے ہیں کہ کوئی پردیس میں مرے

قضا کا مارا۔ (۱- محاورہ) اہل گرفتہ۔ شامت زدہ۔

قضا کرنا۔ (۱- محاورہ) (۱) مرنا۔ انتقال کرنا۔ (۲) مذہبی فریضے کا

وقت مقررہ پر ادا کرنا۔

قضا کے منہ میں جھونکنا۔ (۱- محاورہ) خطرناک جگہ یا کام کے لیے

بھیجنا۔

قضا لکھی ہونا۔ (۱- محاورہ) موت کا کسی خاص طریقہ اور وقت یا جگہ

پر مقرر ہونا۔

قیصا نے گھر دیکھ لیا۔ (۱- محاورہ) موت کے آنے کا راستہ کھل گیا۔

قضا و قدر۔ وہ حکم جو خدائے تعالیٰ نے کائنات کی نسبت روز و نازل سے لگا

دینے ہیں۔ تقدیر الہی۔ خدا کی رضا۔

قضا ہونا۔ (۱- محاورہ) (۱) فرائض مذہبی کا وقت مقررہ پر ادا نہ ہونا۔

قضا لے الہی سے مرنا۔ (۱- محاورہ) طبی موت سے مرنا۔ اپنی آن سے مرنا۔

قضا لے حاجت کرنا۔ (ع۔ ا۔) منہ (۱) حاجت پورا ہونا۔

قضا لے عمر سی۔ (ع۔ ا۔) منہ (۱) وہ نماز جو ہر نماز کے ساتھ گندمی ہوئی عمر

کی قضا شدہ نمازوں کے عوض پڑھی جائے۔

قضا لے کلا۔ (ع۔ ا۔) منہ (۱) اتفاقاً۔

قضا لے مہترم۔ (ع۔ ا۔) منہ (۱) نکلنے والا حکم۔ وہ موت جو کسی

طرح نکلے۔

قضا لے ناگیاں۔ (ع۔ ا۔) منہ (۱) ایک موت۔ خطرناک حادثہ۔

قضا لے معلق۔ (ع۔ ا۔) منہ (۱) وہ قضا جو کسی تدبیر سے ٹل جائے۔

قضا لے (ق۔ ض۔ ع۔ ا۔) منہ (۱) قاضی کی جمع (۲) اردو۔ فارسی میں تشدید

دوم بھی مستعمل ہے۔

قضا یا۔ (ق۔ ض۔ ع۔ ا۔) منہ (۱) قضا کی جمع۔ جھگڑے۔ فساد۔ (۲) فقرے

بجلیے (۳) مباحثے (۴) احکام۔ خبریں۔

قضا یب۔ (ق۔ ض۔ ع۔ ا۔) منہ (۱) کسی ہوئی شاخ (۲) تیر تلواریں، معصوم

تاس۔ ذکر۔ تنگ۔

قضا یب۔ (ق۔ ض۔ ع۔ ا۔) منہ (۱) جھگڑا۔ کھیلا۔ فساد۔ بحث۔ تکرار۔

(۲) کالش۔ مقدمہ (۳) جملہ فقہاء۔ عبادت کا کھلا جمع۔ قضا یا۔

قضا یب اٹھانا۔ (۱- محاورہ) جھگڑا کھڑا کرنا۔

قضا یب باک ہونا۔ (۱- محاورہ) جھگڑا لے ہونا۔

قضا یب چھانا۔ (۱- محاورہ) جھگڑا شاننا۔

قضا یب کرنا۔ (۱- محاورہ) جھگڑا کرنا۔ تکرار کرنا۔

قضا یب مول لینا۔ (۱- محاورہ) دوسرے کے جھگڑے میں پڑنا۔ پرانی بلا لینا۔

قضا یب میں پڑنا۔ (۱- محاورہ) جھگڑے میں پڑنا۔

قضا یب نامر قضا۔ (ع۔ ا۔) منہ (۱) وہ معاملہ یا مقدمہ جو مرضی کے

خلاف ہو۔

ق - ط

قط۔ (ع۔ ا۔) منہ (۱) تراشا۔ کاٹا۔ تلمی کی لوگ کاٹا۔

قطل دینا۔ قطل رکھنا۔ قطل لگانا۔ (۱- محاورہ) قلم کی لوگ قطل گیر پر

رکھ کر کاٹ ڈالنا۔

قطل زن (گیر)۔ (ع۔ ا۔) منہ (۱) وہ چھٹی چیز جس پر قلم کی لوگ

رکھ کر کاٹتے ہیں۔

قطلار۔ (ق۔ ض۔ ع۔ ا۔) منہ (۱) سیدھی اور لمبی صفت۔ پیرا۔ ٹکڑی۔ رنجبر

سلسلہ ترتیب (اُردو میں نفع اَدل غلطی عام ہے)۔

قطار باندھنا - (۱) محاورہ) سلسلہ باندھنا۔ پراگمانا۔ صفت باندھنا۔

قطار بندھی - (ع. ف. ت. ا. صحت) قطار باندھنے کا فعل۔

قطار دور قطار - (ع. ف. ت. متعلق فعل) صفت دور صفت۔ صفتیں بنا کر۔

قطار لڑانا - (۱) محاورہ) ایک کھیل (۲) اُنسے لڑانا فوراً کے دن۔

قطار لہرنا - (ع. ف. ت. ا. صحت) قطار کی جمع۔ کاٹنے والے۔

قطار الطریق - (ع. ف. ت. ا. صحت) راستہ کاٹنے والے (۲) راسخون۔ لیبرے

ڈاکو۔ بٹ مار۔

قطار دائرہ - (ع. ف. ت. ا. صحت) دائرہ (ع. ف. ت. ا. صحت) دائرے کا وہ حصہ جو دو

نصف قطروں اور قوس کے کسی حصے سے گزر گیا ہو۔

قطار کمرہ - (ع. ف. ت. ا. صحت) کمرہ (ع. ف. ت. ا. صحت) کمرہ (ع. ف. ت. ا. صحت) کمرہ (ع. ف. ت. ا. صحت) کمرہ

کئی۔ بیسوار، حرم مزارسی۔

قطب - (ع. ف. ت. ا. صحت) وہ کیل جس پر کئی پھرتی ہے (۲) زمین کے محور

کے دونوں سرے (۳) سردار قوم (۴) مسلمانوں کے عقیدے میں وہ

ولی جس کے پیرو کسی نسبی یا علاقہ کا انتظام ہو (صفت) افضل۔ اعلیٰ۔

برگزیدہ جمع قطاب۔

قطب تارا - (ع. ف. ت. ا. صحت) وہ تارا جو کرہ زمین کے شمالی یا جنوبی سرے پر

نظر آتا ہے

قطب جنوبی - (ع. ف. ت. ا. صحت) زمین کے محور کا جنوبی سرا۔

قطب شمالی - (ع. ف. ت. ا. صحت) زمین کے محور کا شمالی سرا۔

قطب مینار - (ع. ف. ت. ا. صحت) وہ مینار جسے سلطان قطب الدین

ایک نے دہلی میں مسجد قوت الاسلام کے ساتھ بنوایا تھا۔ پیرنگ

شرح کا بنا ہوا ہے۔ اور اس پر آیات قرآنی لکھی ہوئی ہیں۔

قطب نما - (ع. ف. ت. ا. صحت) قطب کی سمت معلوم کرنے کا آلہ۔

قطبیں - (ع. ف. ت. ا. صحت) صفت قطب سے منسوب۔ قطب سے متعلق

قطبین - (ع. ف. ت. ا. صحت) دو قطب شمال اور قطب جنوبی۔

قطر - (ع. ف. ت. ا. صحت) طرف سمت کنارہ (۲) وہ خط مستقیم جو دائرے کے مرکز سے

گزرتا ہو اور دونوں طرف محیط تک چلا جائے۔ یہ دائرے کو دو حصوں میں تقسیم

کرتا ہے۔ جمع قطار۔

قطرات - (ع. ف. ت. ا. صحت) قطرہ کی جمع بوندیں۔

قطرہ - (ع. ف. ت. ا. صحت) پانی کی بوند (۲) کسی سیال چیز کی بوند۔

جمع قطرات۔

قطرہ آنا - (۱) محاورہ) پیشاب کی بوند ٹپکتا۔ بلا ارادہ پیشاب کی بوند

نکل جانا۔

قطرہ زین - (ع. ف. ت. صفت) اکنایتہ تیز و تیز رفتار۔

قطرہ قطرہ - (ع. ف. ت. صفت) بوند بوند تھوڑا تھوڑا۔

قطرہ قطرہ دریا ہو جانا ہے - (۱) ش) تھوڑا تھوڑا کر کے بہت

ہو جاتا ہے

قطع - (ع. ف. ت. ا. صحت) تراش کاٹ (۲) طور طریق ڈھنگ۔ طرز۔

انماز۔ دین۔

قطع بنانا - (۱) محاورہ) انداز اختیار کرنا۔ صورت نکل بنانا۔

قطع متعلق کرنا - (ع. ف. ت. ا. صحت) واسطہ چھوڑ دینا۔ ترک ملاقات یا دوستی

کرنا۔ لگاؤ نہ رکھنا۔

قطع دار - (ع. ف. ت. صفت) اچھی نکل کا خوش نکل

قطع دائرہ - (ع. ف. ت. ا. صحت) دائرے کا وہ حصہ جو دواور کسی قوس سے محیط ہے

قطع راہ - (ع. ف. ت. ا. صحت) راہ کاٹ کرنا۔ سفر کرنا۔

قطع رحم - (ع. ف. ت. ا. صحت) عزیزوں سے تعلق توڑ دینا۔

قطع سخن - قطع کلام - (ع. ف. ت. ا. صحت) بات کا ٹٹنا۔

قطع کرنا - (۱) محاورہ) کاٹنا جراثیم (۲) چھوڑنا۔ اقطع کرنا۔

قطع کلام کرنا - (۱) محاورہ) بات کا ٹٹنا کسی کی بات کے درمیان بولنا۔

قطع مسافت - (ع. ف. ت. ا. صحت) راستہ طے کرنا۔

قطع نظر - (ع. ف. ت. ا. صحت) تاہن فعل (۱) سوا۔ اس کے سوا۔ بجز۔ بن (۲) اس پر

بھی تاہم بہر صورت۔

قطع و مجریدہ - (ع. ف. ت. ا. صحت) کاٹ۔ چھانٹ۔ تراش خراش

کمزورت۔

قطع ہونا - (۱) محاورہ) کاٹنا۔ ترشنا۔ کپڑے کا چھانٹا جانا (۲) بسر ہونا

گزرنا (۳) فیصلہ ہونا۔

قطعا - (ع. ف. ت. ا. صحت) قطعاً فعل (صلاً) برگز۔ ذرا بھی بالکل۔

قطعات - (ع. ف. ت. ا. صحت) قطعہ کی جمع۔

قطوعہ (ع. ف. ت. ا. صحت) قطعہ (ع. ف. ت. ا. صحت) قطعہ (ع. ف. ت. ا. صحت) قطعہ (ع. ف. ت. ا. صحت) قطعہ

خطہ (۲) قطعہ کی وہ قسم جس میں کوئی ایک چیز بیان کی جاتی ہے۔ اس میں

مطلع نہیں ہوتا۔ اور کم سے کم دو شعر ہوتے ہیں بعض قصائد نزدیک

بالفح ہی ہائز ہے۔

قطعہ بند - (ع. ف. ت. ا. صحت) دو یا زیادہ مسلسل اشعار جن میں کوئی خاص

بات بیان کی گئی ہو۔

قطعی - (ع. ف. ت. ا. صحت) قطعہ (ع. ف. ت. ا. صحت) قطعہ (ع. ف. ت. ا. صحت) قطعہ (ع. ف. ت. ا. صحت) قطعہ

قطعی گز - (ع. ف. ت. ا. صحت) قطعہ (ع. ف. ت. ا. صحت) قطعہ (ع. ف. ت. ا. صحت) قطعہ (ع. ف. ت. ا. صحت) قطعہ

قطعیات - (ع. ف. ت. ا. صحت) قطعہ (ع. ف. ت. ا. صحت) قطعہ (ع. ف. ت. ا. صحت) قطعہ (ع. ف. ت. ا. صحت) قطعہ

تنبہ نہ ہو۔

قطرہ - (ع. ف. ت. ا. صحت) قطرہ (ع. ف. ت. ا. صحت) قطرہ (ع. ف. ت. ا. صحت) قطرہ (ع. ف. ت. ا. صحت) قطرہ

قطرہ قطرہ - (ع. ف. ت. ا. صحت) قطرہ (ع. ف. ت. ا. صحت) قطرہ (ع. ف. ت. ا. صحت) قطرہ (ع. ف. ت. ا. صحت) قطرہ

قطرہ قطرہ - (ع. ف. ت. ا. صحت) قطرہ (ع. ف. ت. ا. صحت) قطرہ (ع. ف. ت. ا. صحت) قطرہ (ع. ف. ت. ا. صحت) قطرہ

قطرہ قطرہ - (ع. ف. ت. ا. صحت) قطرہ (ع. ف. ت. ا. صحت) قطرہ (ع. ف. ت. ا. صحت) قطرہ (ع. ف. ت. ا. صحت) قطرہ

قطرہ قطرہ - (ع. ف. ت. ا. صحت) قطرہ (ع. ف. ت. ا. صحت) قطرہ (ع. ف. ت. ا. صحت) قطرہ (ع. ف. ت. ا. صحت) قطرہ

قطرہ قطرہ - (ع. ف. ت. ا. صحت) قطرہ (ع. ف. ت. ا. صحت) قطرہ (ع. ف. ت. ا. صحت) قطرہ (ع. ف. ت. ا. صحت) قطرہ

ق. ط. ق. ع.

قعب - (ع. ف. ت. ا. صحت) قاب۔ بڑا پیالہ (۲) کسی بات کا ٹٹنا۔ مطلب۔

قلم برداشتہ لکھنا (۱- محاورہ) اپنے قائل لکھنا۔ بے ساختہ لکھنا۔ فریاد لکھ دینا۔
قلم بنانا (۱- محاورہ) قلم تراشنا۔ قلم پھیل کر لکھنے کے قابل کرنا (۲- کٹیجی
کے آدھے کے بالوں کو درست کرنا۔

قلم بند (۱- لکھا ہوا۔ مرقوم (۲- مندرجہ رجسٹر۔ درج فہرست (۳- شمار کیا ہوا گنا ہوا
(۴- داخل شدہ (۵- گنتی کے مطابق حساب سے۔

قلم بند سنانا (۱- محاورہ) بے حساب گالیاں دینا۔ خوب گالیاں دینا۔
قلم بند کرنا (۱- محاورہ) درج کرنا۔ لکھ لینا۔ قوت کر لینا۔ کتاب یا رجسٹر
پر چڑھالینا۔

قلم بند ہونا (۱- محاورہ) لکھا جانا۔ تحریر میں آنا۔
قلم بیک (۱- فن۔ ۱- مذم قلم کو بچھنے اور صاف کرنے کا کپڑا۔
قلم بیک کرنا نہیں آتا (۲- محاورہ) لکھنا نہیں آتا۔
قلم پھیرنا (۱- محاورہ) لکھنے کو کٹ دینا۔ مٹا دینا۔ منسوخ کر دینا۔ گناہوں
اور خطاؤں سے درگزر کرنا۔

قلم تراش (۱- فن۔ ۱- مذم قلم بنانے کا جادو۔
قلم آڑ دینا (۱- محاورہ) ایسی نشا یا نظم لکھنا کہ مقابل میں کوئی قلم نہ اٹھ سکے
قلم کجاری رہے۔ (۲- دعاء) ٹھکر چتا رہے۔ حکومت برقرار رہے۔

قلم کھلانا (۱- محاورہ) لکھنا۔ تحریر کرنا۔ درج کرنا۔ رجسٹر میں داخل کرنا۔
قلم دان (۱- فن۔ ۱- مذم قلم دوات وغیرہ رکھنے کا جھیلنا سا بس۔

قلمدان (دینا) عنایت کرنا (۱- محاورہ) عہدہ دینا۔ منشی خاص مقرر
کرنا۔ وزیر بنانا۔

قلمدان وزارت (۱- فن۔ ۱- مذم وزارت کا عہدہ۔
قلم دشمن کے ہاتھ میں ہونا (۱- محاورہ) منافقت کو فیصلہ کرنے
کا اختیار دینا۔

قلمرو (۱- فن۔ ۱- مذم سلطنت۔ حکومت۔ ریاست۔ عملداری
بادشاہی ساج۔

قلم روشن رہے (۱- دعاء) حکم جاری رہے۔ حکومت قائم رہے۔
قلم لڑ کرنا (۱- محاورہ) کسی چیز کو مٹا دینا۔ قلم پھیر دینا۔ کٹ دینا۔

قلم لڑان (۱- فن۔ ۱- مذم قلم۔ منشی۔ عمر (۲- معصوم۔ نقاش۔
قلم لٹرب یا شرمہ (۱- فن۔ ۱- مذم پینسل۔

قلم لڑلا (۱- فن۔ ۱- مذم قلم کو بچھنے کا کپڑا۔
قلم اٹلے (۱- فن۔ ۱- مذم قلم کے تراشنے (۲- گناہیت) مختلف مضامین کے
انتخاب کرنے۔

قلم قصائی۔ ظالم اہل کار۔ قلم کے ذریعہ ظلم ڈھانے والا محرر۔ رشوت
خواہ منشی۔

قلم کار (۱- فن۔ ۱- مذم (۲) منشی۔ محرر۔ مکتوبی۔ لکھنے پڑھنے کا کام
کرنے والا (۳) نقاش۔ معصوم۔ رنگ ساز۔ رنگ بھرنے والا (۴)
کندہ کار۔ نمبر کن (۵) چھینٹ کا کپڑا۔

قلم کاری (۱- فن۔ ۱- مذم (۲) تحریر۔ کتابت (۳) نقاشی۔ معصومی۔
رنگ سازی (۴) نمبر کنی۔ چھینٹ کاری۔

قلم کرنا (۱- محاورہ) لکھنا۔ تراشنا (۲) اٹارنا۔ چھرا کرنا۔ اڑانا (۳)

چھانٹنا۔ درخت وغیرہ۔

قلم کش (۱- فن۔ ۱- مذم لکھنے والا کتابت۔ صاحب قلم۔

قلم کھینچنا۔ قلم مارنا (۱- محاورہ) کاشنا۔ زد کرنا۔ منسوخ کرنا۔ قلم پھیرنا

قلم لگانا (۱- محاورہ) کسی پودے کی شاخ کٹ کر بنا پودا لگانے کے
لئے زمین میں لگانا۔ کسی درخت کی شاخ پھیل کر پودے کی
شاخ بنانا۔

قلم میں زور ہونا (۱- محاورہ) تحریر کا زور دار ہونا۔

قلم کھلی (۱- فن۔ ۱- مذم باہوں کا قلم۔ تصویر بنانے یا رنگ بھرنے کا پیش
قلم لکھنا۔

قلم نہ اٹھ سکتا (۱- محاورہ) لکھنا نہ جانا۔ (۲) قلم اٹھانے کی طاقت
نہ ہونا۔

قلم ہونا (۱- محاورہ) (۲) تراشنا۔ لکھنا۔ (۳) درخت یا شاخ کا کاٹا جانا۔
(۴) اڑ جانا۔ مٹا ہونا۔

قلم میں بخوانا۔ کٹیجی کے بال تراشنا۔

قلمیں چھوڑنا۔ قلمیں رکھنا (۱- محاورہ) کٹیجیوں کے بال بڑھانا۔
قلمیں بڑھانا۔

قلم قلمی۔ نقل۔ ماق۔ نئی (۲) آراء۔ مٹا (۳) اڑنا۔ مٹا (۴) عورت جو ہتھیاروں
سے مسلح شاہی محلوں میں سپاہیوں کی طرح ہیرا دیتی ہے

قلمی (۱- فن۔ ۱- مذم قلم لکھنے کی مہارت۔ (۲) قلم لکھنے کی مہارت۔ (۳) قلم لکھنے کی مہارت۔ (۴) قلم لکھنے کی مہارت۔

قلمی شہورہ (۱- مذم صاف کیا ہوا شہورہ جس کی قلمیں کسی بن جاتی ہیں۔

قلمی کرنا (۱- محاورہ) تحریر کرنا۔ لکھنا۔

قلمی (۱- فن۔ ۱- مذم قلم لکھنے کی مہارت۔ (۲) قلم لکھنے کی مہارت۔ (۳) قلم لکھنے کی مہارت۔ (۴) قلم لکھنے کی مہارت۔

قلمدر (۱- فن۔ ۱- مذم قلم لکھنے کی مہارت۔ (۲) قلم لکھنے کی مہارت۔ (۳) قلم لکھنے کی مہارت۔ (۴) قلم لکھنے کی مہارت۔

قلمدر (۱- فن۔ ۱- مذم قلم لکھنے کی مہارت۔ (۲) قلم لکھنے کی مہارت۔ (۳) قلم لکھنے کی مہارت۔ (۴) قلم لکھنے کی مہارت۔

قلمدر (۱- فن۔ ۱- مذم قلم لکھنے کی مہارت۔ (۲) قلم لکھنے کی مہارت۔ (۳) قلم لکھنے کی مہارت۔ (۴) قلم لکھنے کی مہارت۔

قلمدر (۱- فن۔ ۱- مذم قلم لکھنے کی مہارت۔ (۲) قلم لکھنے کی مہارت۔ (۳) قلم لکھنے کی مہارت۔ (۴) قلم لکھنے کی مہارت۔

قلمدر (۱- فن۔ ۱- مذم قلم لکھنے کی مہارت۔ (۲) قلم لکھنے کی مہارت۔ (۳) قلم لکھنے کی مہارت۔ (۴) قلم لکھنے کی مہارت۔

قلمدر (۱- فن۔ ۱- مذم قلم لکھنے کی مہارت۔ (۲) قلم لکھنے کی مہارت۔ (۳) قلم لکھنے کی مہارت۔ (۴) قلم لکھنے کی مہارت۔

قلعہ شجرہ (۱۷) مذ (اصل کلاہ و خوجر تھا) مال اسباب۔ لہذا یا پدھنا۔
قلعہ کوہ۔ (۱۵) ف۔ (۱۵) مذ (پہاڑی چوٹی)۔
قلیٰ۔ (۱۶) ف۔ (۱۶) مذ (غلام) (۱۶) مذ (مزدور۔ بوجھ اٹھانے والا
تیسرے معنی)۔

قلی گیری۔ (۱۷) ف۔ (۱۷) مذ (عنت۔ مزدوری۔ نقلی کام یا پیشہ۔
قلیاء علی یا، (۱۸) مذ (قرآن مجید کی نحوہ کا فنون
قلیاً تمام کرنا۔ قلیاً ختم کرنا۔ (۱۶) حمادہ) کام تمام کرنا۔ ختم کرنا۔
قلیان۔ (۱۹) ف۔ (۱۹) مذ (معدنی۔ کھرو۔ کھرو۔ کھرو۔ کھرو۔
قلیان کشی۔ (۲۰) ف۔ (۲۰) مذ (معدنی)۔

قلیب۔ (۲۱) ف۔ (۲۱) مذ (ایک عمر (ذن) کا نام۔
قلیج۔ (۲۲) ف۔ (۲۲) مذ (تولار)۔

قلیل۔ (۲۳) ف۔ (۲۳) مذ (کم۔ تھوڑا۔ نرسانا (۲۴) جھٹلا۔ کوتاہ۔ خرد۔
قلیل الاعتبار۔ (۲۵) ف۔ (۲۵) مذ (بے اعتبار۔ عین کا اعتبار کم ہو۔
قلیل البضاعت۔ (۲۶) ف۔ (۲۶) مذ (تھوڑی پونجی والا۔
قلیل القامت۔ (۲۷) ف۔ (۲۷) مذ (تھوڑے قدم والا۔

قلیل و کثیر۔ (۲۸) ف۔ (۲۸) مذ (تھوڑا بہت۔ کم و بیش۔
قلیہ۔ (۲۹) ف۔ (۲۹) مذ (ا) قوس پر بیٹھا ہوا گوشت (۲) سادہ گوشت گھی
میں بیٹھ کر شور بے دار کھاؤ۔

قلیہ چپائی۔ (۳۰) ف۔ (۳۰) مذ (چھلکا گوشت، گشت مدائی)۔

ق۔ م

قلم۔ (۳۱) ف۔ (۳۱) مذ (لکھنے والا۔ لکھنے والا۔
قلم باذن لئذ۔ (۳۲) ف۔ (۳۲) مذ (خدا کے لئے لکھنے والے کے لئے)۔
قلم کا مزہ۔ آپ یہ کلمہ فرما کر مرے کو زندہ کر دیتے تھے اُسے قلم
بچھے بھی کہتے ہیں

قلم باذنی۔ (۳۳) ف۔ (۳۳) مذ (میرے لئے جسے قلم جس تیزی کے متعلق کہا
جاتا ہے کہ انہوں نے یہ کلمہ کہہ کر مرے کو زندہ کر دیا تھا اس پر انہیں
بحکم شرع قتل کر دیا گیا۔

قلمار۔ (۳۴) ف۔ (۳۴) مذ (بازی)۔ جس کے ساتھ شرط ہو۔
قلمار باز۔ (۳۵) ف۔ (۳۵) مذ (بازی)۔ شرط لگا کر بازی بیٹے والا۔

قلمار بازی۔ (۳۶) ف۔ (۳۶) مذ (بازی)۔
قلمار خانہ۔ (۳۷) ف۔ (۳۷) مذ (بازی)۔ جس کے ساتھ شرط ہو۔

قلمار کاغذی۔ (۳۸) ف۔ (۳۸) مذ (بازی)۔
قلمار یا۔ (۳۹) ف۔ (۳۹) مذ (بازی)۔
قلماش۔ (۴۰) ف۔ (۴۰) مذ (بازی)۔

قلمیڑا۔ (۴۱) ف۔ (۴۱) مذ (بازی)۔
قلمیڑا۔ (۴۲) ف۔ (۴۲) مذ (بازی)۔
قلمیڑا۔ (۴۳) ف۔ (۴۳) مذ (بازی)۔

قلمی۔ (۴۴) ف۔ (۴۴) مذ (بازی)۔

قلمی گھڑنا۔ (۴۵) ف۔ (۴۵) مذ (بازی)۔

قلمی لگانا۔ (۴۶) ف۔ (۴۶) مذ (بازی)۔

قلمی۔ (۴۷) ف۔ (۴۷) مذ (بازی)۔

قلمی۔ (۴۸) ف۔ (۴۸) مذ (بازی)۔

قلمی۔ (۴۹) ف۔ (۴۹) مذ (بازی)۔

قلمی۔ (۵۰) ف۔ (۵۰) مذ (بازی)۔

قلمی۔ (۵۱) ف۔ (۵۱) مذ (بازی)۔

قلمی۔ (۵۲) ف۔ (۵۲) مذ (بازی)۔

قلمی۔ (۵۳) ف۔ (۵۳) مذ (بازی)۔

قلمی۔ (۵۴) ف۔ (۵۴) مذ (بازی)۔

قلمی۔ (۵۵) ف۔ (۵۵) مذ (بازی)۔

قلمی۔ (۵۶) ف۔ (۵۶) مذ (بازی)۔

قلمی۔ (۵۷) ف۔ (۵۷) مذ (بازی)۔

قلمی۔ (۵۸) ف۔ (۵۸) مذ (بازی)۔

ق۔ ن

قنات۔ (۱) ف۔ (۱) مذ (نات)۔
قنات۔ (۲) ف۔ (۲) مذ (نات)۔

قنات۔ (۳) ف۔ (۳) مذ (نات)۔
قنات۔ (۴) ف۔ (۴) مذ (نات)۔

قوی الحیثہ۔ (ع۔ صفت) مضبوط جسم کا۔ پشیمان۔
 قوی بازو۔ (بال پیچیدہ است) (ع۔ صفت) مضبوط طاقت ور۔ زور آور۔
 قوی تن۔ (ع۔ صفت) مضبوط بدن۔
 قوی دہل۔ (ع۔ صفت) بہادر۔ شجاع۔
 قوی ہیکل۔ (ع۔ صفت) شانہ زور۔ تعداد۔

قہر ہوتا ہے۔ (۱۔ مثل) اُجڑا ہوتا ہے۔ غضب ہوتا ہے۔
 قہر ہونا۔ (۱۔ محاورہ) غضب ہونا۔ آفت کا پڑکالا ہونا۔
 قہر ہے۔ (۱۔ تابع فعل) آفت ہے۔ غضب ہے۔ فتنہ پرداز۔ عتیار
 اور چالاک ہے (۲)۔ بوجہ غلہ بورت ہے۔
 قہر اُ۔ (قہر۔ زلزلہ) (ع۔ تابع فعل) زبردستی سے۔ مجبوراً۔ چلونا چار
 قہر مان۔ (قہر۔ مان) (ع۔ ۱۔ مذ) (۱)۔ حاکم۔ صاحب اقتدار (۲)
 قہر و جلال کے ساتھ حکومت۔ (۱)۔ بڑی کی طاقت مہرمان۔ (۳)
 بہادر۔ شجاع۔ زبردست۔

ق۔ ہ

قہار۔ (ق۔ ہا۔) (ع۔ صفت) بڑا قہر کرنے والا۔ (۲)۔ غلبہ حاصل کرنے
 والا۔ زبردست (۳)۔ زور دار (۴)۔ خدائے تعالیٰ کا صفتی نام۔
 قہارسی۔ (ع۔ صفت) قہار کا خدا کا جیسے غضب قہاری۔
 قہر۔ (ع۔ ۱۔ مذ) (۱)۔ غلبہ۔ زور آورسی زبردستی۔ (۲)۔ (اُڑ)۔ ٹھگی۔ غضب
 عقدہ۔ جشم (۳)۔ جوش۔ جذبہ۔ دلولہ۔ (۴)۔ تیزی۔ تندی۔ غضب ناک
 (۵)۔ دشوار کام۔ مشکل امر۔ (۶)۔ آفت۔ شامت۔ مصیبت۔
 (۷)۔ بلائے جان۔ عذاب۔ روگ۔ سہا بن مدح۔ (۸)۔ انوس
 حیف۔ دریغ۔ (۹)۔ ظلم۔ نا انصافی۔ اندھیر (۱۰)۔ (اُڑ)۔ صفت
 فتنہ انگیز۔ (۱۱)۔ غضب کا۔ قیامت کا۔ نہایت شوخ۔ آفت کا
 پڑکالا۔ (۱۲)۔ قابل تحسین۔ قابل تعریف۔ نہایت وضع دار۔
 بچھڑ خوب صورت۔ (۱۳)۔ از حد۔ بہت زیادہ (۱۴)۔ نہایت
 بد مزاج۔ غصیل۔ (۱۵)۔ نہایت شکل۔ اُوق۔ (۱۶)۔ عجیب الوکھا۔
 (۱۷)۔ نامناسب۔ ناگوار۔ بڑا۔

قہری۔ (ع۔ صفت) ٹھٹھے والا۔
 قہر سنی۔ (ق۔ ق۔) (ع۔ ۱۔ مذ) (۱)۔ اٹھا چلنا۔ (۲)۔ کھینچنے پاؤں
 چلنے والا۔
 قہر مہ۔ (ق۔ ق۔) (ع۔ ۱۔ مذ) ٹھٹھا زور سے ہنسا۔ بندہ آواز سے ہنسا
 کھکھکا کر ہنسا۔
 قہر مہ اڑانا۔ (۱۔ محاورہ) ٹھٹھا مارنا، (۲)۔ احمق بنانا، (۳)۔ مضحکہ اڑانا۔
 قہر مہ لگانا، مارنا۔ (۱۔ محاورہ) ٹھٹھا مار کر ہنسا۔ زور سے ہنسا۔
 قہر مہوں میں اڑانا۔ (۱۔ محاورہ) ہنسی میں ٹالنا۔
 قہر مہ اڑانا۔ مضحکہ اڑانا، ہنسی میں ٹالنا۔
 قہر مہ جسے کئی باتیں ہونما۔ (۱۔ محاورہ) ہنسی مذاق کی باتیں کرنا۔
 قہر مہ لگانا۔ (۱۔ محاورہ) بہت ہنسا۔ مضحکہ اڑانا۔
 قہر مہ۔ (ع۔ ۱۔ مذ) (۱)۔ ایک قسم کا خمیر جسے کھجور کر پیستے اور
 پھر جانے کی طرح پانی میں جوش دے کر پیستے ہیں۔ کافنی۔
 قہر مہ خانہ۔ (ع۔ صفت)۔ (۱۔ مذ) وہ دکان جہاں لوگ قہر مہ پیستے اور
 گپ شپ اڑاتے ہیں۔

ق۔ ی

قہر آمیز۔ (ع۔ صفت) غصے سے بھرا ہوا۔
 قہر الہی۔ (ع۔ ۱۔ مذ) خدا کا غضب۔ بلائے آسمان۔
 قہر لوڑنا۔ (۱۔ محاورہ) غضب ڈھانا۔ نہایت غصے ہونا۔
 قہر لوڑنا۔ (۱۔ محاورہ) غضب الہی نازل ہونا۔ آفت آنا۔
 قہر لوڑے۔ (بد دعاء) آفت آئے۔ میرے۔ غضب کا سامنا ہو۔
 قہر درویش بر جان درویش۔ (ع۔ صفت) غلبہ کا غلبہ اپنے
 ہی اوپر چیتا ہے۔
 قہر ڈھانا۔ (۱۔ محاورہ) کسی پر آفت لانا ظلم کرنا۔ ستم کرنا۔
 قہر قیامت ہونا۔ (۱۔ محاورہ) بے حد خوب صورت اور شوخ
 ہونا۔ فتنہ زار ہونا (۲)۔ فساد ہی ہونا
 قہر کا۔ (۱۔ صفت) (۱)۔ آفت کا۔ غضب کا (۲)۔ نہایت۔ از حد (۳)۔ خوفناک
 ہونا (۴)۔ نہایت چالاک بہت شوخ۔ شقی
 قہر کا سامنا۔ (۱)۔ مقولہ آفت سے مقابلہ۔
 قہر کرنا۔ (۱۔ محاورہ) (۱)۔ غضب کرنے یا حرکت کرنا، ظلم کرنا۔ زیادتی کرنا۔
 (۲)۔ الوکھا کام کرنا۔
 قہر کی آنکھ سے دیکھنا۔ (۱۔ محاورہ) غصے سے دیکھنا۔
 قہر نازل ہونا۔ (۱۔ محاورہ) غضب اُترنا۔ آفت کا نازل ہونا۔
 قہر ناک۔ (ع۔ صفت) غضب ناک۔ سخت عقدہ دار۔ بہت بڑا۔ بڑا تیز۔

قہر۔ (ع۔ ۱۔ صفت) (۱)۔ مثل۔ استغفار۔ (۲)۔ زور
 قہر آنا۔ (۱۔ محاورہ) (۱)۔ جی متلانا۔ (۲)۔ اُکائی آنا۔ الٹی ہونا۔ روکنا۔ (۳)۔
 کرامت ہونا۔ لغزت ہونا۔
 قہر کرنے۔ (۱۔ محاورہ) الٹی کرنا۔ اُکھنا۔
 قیادت۔ (ق۔ ی۔) (ع۔ ۱۔ صفت) (۱)۔ راہبری۔ (۲)۔ فنانی۔ (۳)۔
 سرور سی۔ سرکردگی۔
 قیاس۔ (ق۔ ی۔) (ع۔ ۱۔ مذ) (۱)۔ جانچ۔ اندازہ۔ اُکل۔ تخمینہ (۲)۔ (منطق)
 دو جملوں سے مرکب قول جس سے نتیجہ لازم آئے۔ منطقی شکل (اُڑ)۔
 ذہن۔ رائے۔ سوچ۔ بجا، (۳)۔ قیافہ۔
 قیاس استنشاق۔ (ع۔ ۱۔ مذ) (۱)۔ منطق میں قضیہ یا شرط۔
 قیاس استقرائی۔ (ع۔ ۱۔ مذ) (۱)۔ منطق میں قضیہ مکمل۔
 قیاس دوڑانا۔ (۱۔ محاورہ) خیال دوڑانا۔ سوچنا۔
 قیاس سے باہر۔ (۱۔ صفت) (۱)۔ سمجھ سے زیادہ۔ تقویر یا خیال کی حد سے گزرا

آفتاب

قیامت ہونا۔ (۱- معارف) ۱۱، مصیبت ہونا۔ آفت ہونا، ۲۲، مشکل ہونا۔ دشوار ہونا، ۲۳، کمال شرف اور شرف ہونا۔ ۲۴، ہنگامہ بڑا ہونا۔ شور ہونا۔ ۵، نہایت خوبصورت ہونا۔

قیامت ہے۔ (۱- معارف) ۱۱، آفت ہے بلا ہے، ۲، شور و غل ہے۔ (۳، نہایت خوب ہے۔ ۴، ظلم ہے۔ اندھیر ہے۔

قید۔ (۱- معارف) ۱۱، بند۔ حبس۔ اسیری۔ روک۔ خطر۔ پابندی۔ قید اٹھا دینا۔ قید اڑا دینا۔ (۱- معارف) پابندی، جلا دینا، شرط اٹھا دینا۔

قید بلا مشقت۔ (۱- معارف) ۱۱، وہ قید جس میں قیدی سے مشقت نہ مل جائے۔

قید بھرنا۔ سہل کرنا۔ (۱- معارف) قید کا ٹا۔ قید کی مدت پوری کرنا۔ قید تہائی۔ (۱- معارف) ۱۱، مدت، اتہار، رہنے کی قید جس میں قیدی سے مشقت بھی زیادہ مل جاتی ہے۔

قید خانہ۔ (۱- معارف) ۱۱، جیل خانہ، بندی گھر۔

قید سخت۔ (۱- معارف) ۱۱، مشقت والی قید۔

قید فرنگ۔ (۱- معارف) ۱۱، اہل فرنگ کی ایک قسم کی قید جس سے رہائی مشکل ہے، کو کہتی تھی۔

قید نفس۔ (۱- معارف) ۱۱، تجربے کی قید، ۲، معجزاً عورتوں کا مکان کی چار دیواری میں پردہ نشین ہو کر رہنا۔

قید کرنا۔ (۱- معارف) ۱۱، بند کرنا، جیل بھیجنا۔ اسیر کرنا، ۲، روکنا، ضبط کرنا، پابند کرنا، ضروری قرار دینا۔

قید لگانا۔ (۱- معارف) ۱۱، عہد باندھنا، محدود کرنا، ۲، شرط باندھنا، ۳، پابند کرنا، ضروری کرنا۔

قید محض۔ (۱- معارف) ۱۱، بلا مشقت قید۔

قید ہونا۔ (۱- معارف) ۱۱، گرفتار ہونا، جیل ہونا، ۲، پابند ہونا۔

قیدی۔ (۱- معارف) ۱۱، اسیر، مقید، محبوس۔ گرفتار۔

قیر۔ (۱- معارف) ۱۱، لال، ایک قسم کا سیاہ موعن جو کھیتوں اور چبازوں میں لگایا جاتا ہے تاکہ ورتوں سے پانی نہ آسے۔ تارکول۔

قیر گول۔ (۱- معارف) ۱۱، صفت سیاہ فام۔

قیراڑ۔ (۱- معارف) ۱۱، درہم کے بانووں جھٹے کے برابر ایک وزن۔

قیس۔ (۱- معارف) ۱۱، محبوں عامری کا نام جو لیل پر عاشق تھا۔

قیصر۔ (۱- معارف) ۱۱، شاہ روم کا لقب، ۲، سلطان شہنشاہ۔

قیصری۔ (۱- معارف) ۱۱، شاہی شہنشاہی۔

قیطون۔ (۱- معارف) ۱۱، ایک قسم کی زری اور لہسم کی بی بی ہوتی ڈوبی، ۲، ایک قسم کی باریک بیج۔

قیف۔ (۱- معارف) ۱۱، دمشت، بوتلوں میں رقیق چیز بھرنے کا

ایک آلہ۔

قیق۔ (۱- معارف) ۱۱، زور کی وجہ۔ ہاتھی کی آواز۔ قیل و قال۔ (۱- معارف) ۱۱، گفتگو۔ بات چیت۔

قیکوڑ۔ (۱- معارف) ۱۱، بھٹ و مباحثہ۔ روکو، کد، محبت۔ آرام کرنا۔

قیسم۔ (۱- معارف) ۱۱، باندہ، قائم کرنے والا، ۲، نگران، منتظم، ۳، خدا تعالیٰ کا ایک صفائی نام۔

قیماق۔ (۱- معارف) ۱۱، بالائی، دودھ پر کی لٹائی۔

قیمت۔ (۱- معارف) ۱۱، مول، دام، ۲، بھاؤ، نرخ۔ (۳، قدر، مرتبہ۔

قیمت اٹھانا۔ (۱- معارف) ۱۱، دام تجویز ہونا، مول طے ہونا۔

قیمت بانا۔ (۱- معارف) ۱۱، دام وصول ہونا، مول بچھ جانا۔

قیمت ٹھہرانا۔ (۱- معارف) ۱۱، بھاؤ چکانا، مول مقرر کرنا۔

قیمت طے کرنا۔ (۱- معارف) ۱۱، قیمت مقرر کرنا۔

قیمت طے ہونا۔ (۱- معارف) ۱۱، قیمت کا فیصلہ ہونا، بھاؤ چکانا۔

قیمت کا نام رکھنا۔ (۱- معارف) ۱۱، قیمت مقرر کرنا۔

قیمت کرنا۔ (۱- معارف) ۱۱، چکانا، قیمت طے کرنا۔

قیمت گرا کے لینا۔ (۱- معارف) ۱۱، کم قیمت پر لینا۔

قیمت لگانا۔ (۱- معارف) ۱۱، دام لگانا، مول قرار دینا۔

قیمت کرنا۔ (۱- معارف) ۱۱، قیمت کا نام بچھانا۔

قیمت مال مبیعہ۔ (۱- معارف) ۱۱، بچھے ہوئے مال کی قیمت۔

قیمتیا۔ (۱- معارف) ۱۱، تابع، فعل، قیمت کے ساتھ قیمت چکانا۔

قیمتیں۔ (۱- معارف) ۱۱، بھٹ، بھاؤ، قیمت کا۔

قیمتیں۔ (۱- معارف) ۱۱، قابل قدر۔

قیمتہ۔ (۱- معارف) ۱۱، ریزہ ریزہ کیا، بوگوشت، کٹا، بوگوشت۔

قیمتہ کرنا۔ (۱- معارف) ۱۱، ریزہ ریزہ کرنا۔

قیمتین۔ (۱- معارف) ۱۱، (۱- معارف) ۱۱، معارض، کٹر ل، ۲، لوسے کی وہ آٹھی، ۳، ترچھی سلاخیں جو چھلکے کے طور پر مکان کے گرد لگا دیتے ہیں، ۴،

وہ آٹھی نکڑیاں جن پر کپڑوں کا ٹھاکر رکھتے ہیں۔

قیمتین باندھنا۔ (۱- معارف) ۱۱، تہلوائل کا حریف کی دونوں ٹانگیں میں اپنی ٹانگیں ڈال کر بے بس کر دینا۔ ۲، گھوڑے کو دونوں رانوں میں دبالینا۔

قیمتین سی زبان چلنا۔ قیمتین کی طرح زبان چلنا۔ (۱- معارف) ۱۱، جلد جلد باتیں کرنا۔ زبیر زبان چلنا۔

قیمتین لگانا۔ (۱- معارف) ۱۱، قیمت سے کرنا، کٹا، تراشنا، قلم کرنا، چھانٹنا، ۲، ترچھی اڑ داڑ لگانا۔

قیمتین۔ (۱- معارف) ۱۱، ریزہ، ۲، معارض، جمع، بھٹوں، پابندیاں۔

قیمتوں۔ (۱- معارف) ۱۱، (۱- معارف) ۱۱، قائم رہنے والا، مستحکم، استوار۔ ۲، خدا سے تعالیٰ کا ایک صفائی نام۔

ک

ک۔ (کاف) (ح۔ ۱۔ ۱۔ ۱) اذ اردو کا اٹھاسیواں فارسی کا پچیسواں عربی کا باسیسواں اور ہندی کا پچاسواں اہم حرف حساب بعد میں اس کے میں عدد فرض کیے گئے ہیں۔ یہ قمری حرف ہے اگر اس سے پہلے ال، آئے گا تو لام بڑھا جائے گا۔ جیسے اکتوٹر۔ فارسی میں کسی اسم کے بعد آئے تو اسم تصغیر بنا دیتا ہے جیسے ٹھنک۔ اردو میں آخر میں اگر اسم کیفیت کے معنی دیتا ہے۔ جیسے ٹھنک۔ عربی میں بطور صفت جار مرکبات میں استعمال ہوتا ہے جیسے یعنی شغل۔ مانند۔ ہندی میں الفاظ کے پہلے اگر ناقص اور گھٹیا کے معنی دیتا ہے جیسے کپوت۔

ک۔ ۱

کا۔ [کاف] حرف اصناف۔ بشرطیکہ مقابلہ مکر ہو۔ یہ لفظ اردو میں متعلق۔ نسبت۔ رگڑ۔ ملکیت اور فیصلہ ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہے۔
 کابر (کا۔ بزر) [ح۔ ۱۔ ۱۔ ۱] چکر۔ چتی نار۔ رہ ایک سیاہ پرند کا نام۔ جس کے پیٹ پر سفید چتیاں ہوتی ہیں۔
 کابر (کا۔ بزر) [ح۔ ۱۔ ۱۔ ۱] ایک قسم کے کبوتر کا رنگ۔
 کابس (کا۔ سن) [ح۔ ۱۔ ۱۔ ۱] مٹھی کے برتن پر تیلی کرنے کی مٹی۔ اس مٹی کو عاملہ عربوں میں کھاتی بھی ہیں۔
 کابک (کا۔ بک) [ح۔ ۱۔ ۱۔ ۱] مٹیوں [بٹروں] کبوتروں کا ڈرا جو بانس کی کھیسوں سے بناتے ہیں۔ بکڑی کے ڈربے کو بھی کہتے ہیں۔
 کابل میں کیا گدھے نہیں ہوتے؛ [ح۔ ۱۔ ۱۔ ۱] کابل کے گھوڑے مشہور ہیں۔ اس نسل میں یہ دکھایا گیا ہے کہ جہاں اچھے لوگ ہوتے ہیں۔ وہاں گدھے بھی ہوتے ہیں۔
 کابل (کا۔ ب) [ح۔ ۱۔ ۱۔ ۱] ایک قسم کا بڑا بیج۔ ڈھیری۔
 کابلی (کا۔ بلی) [ح۔ ۱۔ ۱۔ ۱] صفت [انفنانن] کے درہ حکومت کابل کا باشندہ۔ [ح۔ ۱۔ ۱۔ ۱] کابل سے منسوب [ح۔ ۱۔ ۱۔ ۱] ایک قسم کا کبوتر جو بہت بلند پر اڑتا ہے اور دو دو تین تین دن تک زمین پر نہیں اترتا۔
 کابوس (کا۔ بوس) [ح۔ ۱۔ ۱۔ ۱] ایک قسم کی بیماری۔ جس میں آدمی کو نیند میں یوں عسوس ہوتا ہے۔ جیسے کسی نے اسے دبا یا ہے وہ خوف و ڈر سے چیخنے دھلٹانے لگتا ہے۔
 کابین (کا۔ بین) [ح۔ ۱۔ ۱۔ ۱] مذہب۔ وہ روپیہ جو نکاح کے وقت شوہر منکوحہ کو دینا منظور کرنا ہے۔
 کابین نامہ۔ مہر کا کاغذ۔ وہ کاغذ جس پر مہر کا مقدار اور رقم نامہ لکھا جاتا ہے مہر کی دستاویز۔
 کابینہ (کا۔ بی۔ نہ) [ح۔ ۱۔ ۱۔ ۱] Cabinet کہے۔ بی۔ نہ) کامفرس [ح۔ ۱۔ ۱۔ ۱] مذہب مجلس وزراء۔ وزارت۔
 کاپی (Copy) [ح۔ ۱۔ ۱۔ ۱] مٹھی نقل۔ تحریر تصویر وغیرہ کی [ح۔ ۱۔ ۱۔ ۱] کتاب وغیرہ کا [ح۔ ۱۔ ۱۔ ۱] ہر مشقی یا قلمی تختیاں۔ کھینے کی کتاب۔ سر مشقی۔ یاں۔ یہ چھپائی کے لیے کتابت کیے ہوئے اوراق۔

کاپی اٹھنا (ح۔ ۱۔ ۱۔ ۱) معاوردہ کتابت شدہ حروف کا چھاپنے کی پٹی پر اٹھنا۔ کاپی اٹھانا (ح۔ ۱۔ ۱۔ ۱) معاوردہ۔ چھاپنے کی پٹی پر سے الفاظ اور حروف کا نام لکھنا۔ کاپی رائٹ (Copyright) [ح۔ ۱۔ ۱۔ ۱] حق بیع یا اشاعت۔ حق تصنیف و تالیف حق ایجاد۔
 کاپی نویس (ح۔ ۱۔ ۱۔ ۱) صفت [نقل کرنے والا۔ نقل نویس [ح۔ ۱۔ ۱۔ ۱] کتاب نویسوں۔ کاتب۔ [ح۔ ۱۔ ۱۔ ۱] مذکر [کاتب]۔
 کاکا (کا۔ تا) [ح۔ ۱۔ ۱۔ ۱] صفت [تسا ہوا] [ح۔ ۱۔ ۱۔ ۱] ذکا۔ دھکا۔ موت [ح۔ ۱۔ ۱۔ ۱] بائس کاٹنے کا پھرا۔
 کاکا اور لے ڈوڑی (ح۔ ۱۔ ۱۔ ۱) شکل [کام کرتے ہی مزدوری کا تعنا۔ پیٹ کے ہلکے اور ستوں مزاج کی نسبت ہوتے ہیں۔ جلد باز۔
 کاتب (کا۔ تب) [ح۔ ۱۔ ۱۔ ۱] مذہب [کاتبت کرنے والا۔ کھنے والا] [ح۔ ۱۔ ۱۔ ۱] کاپی نویس۔ محرر۔ خوشنویس۔ نویسندہ۔
 کاتب ازل (ح۔ ۱۔ ۱۔ ۱) مذہب [کاتب اللہ تعالیٰ]۔
 کاتب اعمال (ح۔ ۱۔ ۱۔ ۱) مذہب [انسان کا اعمال نامہ کھنے والا فرشتہ۔
 کاتب الحروف (ح۔ ۱۔ ۱۔ ۱) مذہب [کھنے والا۔ کتابت کرنے والا۔
 کاتب تقدیر (ح۔ ۱۔ ۱۔ ۱) کاتب قدرت [کاتبین] خدا تعالیٰ۔
 کاتب مسمر (ح۔ ۱۔ ۱۔ ۱) مذہب [پرائیوٹ سیکرٹری۔ نجی منشی کاپی [ح۔ ۱۔ ۱۔ ۱] صفت [بازو کی ایک قسم کی دستک]۔
 کاتبک (کا۔ بک) [ح۔ ۱۔ ۱۔ ۱] مذہب [کاتب سال کا سا توان مہینہ۔ تقریباً ۱۵ اکتوبر سے ۱۵ نومبر تک کا زمانہ۔
 کاتبک کی کتیا۔ [ح۔ ۱۔ ۱۔ ۱] صفت [مستی میں آئی ہوئی کتیا۔ [ح۔ ۱۔ ۱۔ ۱] فاحشہ اور چمنال عورت۔
 کاتنا (کا۔ ت) [ح۔ ۱۔ ۱۔ ۱] صفت [چرنے پر رُوئی سے موت بنا نا۔ چرنے کے ذریعے روئی کے تار زکا نا۔
 کاتنا تو آتا نہیں۔ [ح۔ ۱۔ ۱۔ ۱] شکل [بے جانے بوجھے کام میں دخل دینے پر کہا جاتا ہے۔
 کاتن بٹھی دیا جانے۔ [ح۔ ۱۔ ۱۔ ۱] شکل [بے جانے بوجھے کام میں کو ضائع کر کے بے وقت کام شروع کرنے والے کے متعلق کہا جاتا ہے۔
 کاتی (کا۔ تی) [ح۔ ۱۔ ۱۔ ۱] مٹھی [سٹاروں کا ایک اوزار جس سے تار یا پتلا کاٹنے میں کاسٹ۔ [ح۔ ۱۔ ۱۔ ۱] مٹھی [دلم برش رکٹا و [ح۔ ۱۔ ۱۔ ۱] گھاؤ [ح۔ ۱۔ ۱۔ ۱] چھانٹ۔ قطع رواتر۔

کاٹے ہارٹھ نام تلوار کا۔ لڑے فوج نام سردار کا۔ [ک-۱-۱] مثل [تپوں کی کارگزاری سے بڑوں کا نام ہوجاتا ہے۔
 کاٹے کا منتر نہیں [۱۔۱] مثل [کسی کی ایذا رسانی کا دھیہ نہ ہونے اور بڑے تیار ہونے کی جگہ بولا جاتا ہے۔
 کاٹے کٹے ناٹے ٹٹے۔ کاٹے کٹے نہ مارے مرے۔ [۱۔۱] مثل [۱۔۱] نہایت سخت جان ہے یہ بڑا دشوار کام ہے۔
 کاٹے کھانا۔ [ا۔ر-۱] محاورہ [۱۔۱] نہایت ناگوار گذرنا یہ خوفناک معلوم ہونا۔ [۱۔۱] تکلیف دینا۔ آزر رسا ہونا۔
 کاٹے گا۔ [۱۔۱] محاورہ [۱۔۱] کمزور آدمی عقبتہ دکھائے تو طنز کہتے ہیں۔
 کاٹے نہ کٹنا۔ [ا۔ر-۱] محاورہ [۱۔۱] ڈوبھو ہونا۔ اہیر ہونا۔ بکھن اور سخت بنا کسی طرح نہ ہونا۔
 کاج۔ [۱۔۲-۱] مذ [۱۔۲] کام۔ کار۔ ہاڑین کا گھر۔ یہ بیاہ شادی کا کاروبار خوشی کا کام۔
 کاج بنانا۔ [۱۔۱] محاورہ [۱۔۱] پوتام کا گھر بنانا۔ بھن کے لیے کسی کپڑے میں کوراج بنانا۔ کاجل۔ [ک-۱] جن [۱-۱] مذ [۱] چراغ کا ڈھواں جو آنکھوں میں لگایا جاتا ہے۔ ڈوڈو چراغ۔
 کاجل اڑانا۔ [۱۔۱] محاورہ [۱۔۱] کاجل صاف کر دینا۔ نشان مٹا دینا۔ کاجل پارنا [۱۔۱] محاورہ [۱۔۱] چراغ کی توپر سرپوش رکھ کر کاجل اکٹھا کرنا۔ کاجل دینا کاجل سارنا۔ [۱۔۱] محاورہ [۱۔۱] آنکھوں میں کاجل لگانا۔ کاجل کاجل۔ [۱-۱] مذ [۱] وہ حال جو شوخ عورت لوگ خوش نمائی کے لیے کاجل سے اپنے ریشاروں پر بنا لیتے ہیں۔
 کاجل کی کبوتی اور پھولوں کا سڈکا [۱۔۱] مثل [۱] بد صورت جب بناؤ سڈکا کرتا ہے تو ایسے موقع پر ہوتے ہیں۔ کالی رنگت پر حسن چمکانے کا انبار۔
 کاجل کی کبوتی [۱-۱] مثل [۱] وہ برتن جس میں عورتیں کاجل رکھتی ہیں۔ کاجل کی کوٹھڑی [۱-۱] مثل [۱] کاجل اکٹھا کرنے کا مکان یا بدنامی کا گھر۔ عیب گنتے کی جگہ۔
 کاجل کی کوٹھڑی میں وجھے کا ڈر [۱-۱] مثل [۱] بدنام جگہ جانے میں بدنامی لازمی ہے۔
 کاجل کی کوٹھڑی میں جائے گا اُسے ٹیکے لگے گا۔ [مثل] جبری صحبت یا بدنام جگہ جانے سے بدنامی ہی ہوتی ہے۔
 کاجنا۔ [ک-۱] نا [۱-۱] میں [۱] چونا۔
 کاجو۔ [ک-۱] جو [۱-۱] مذ [۱] ایک قسم کا درخت اور اس کا چل جو دوڑوں میں کام آتا ہے۔
 کاجو بھوجو۔ [ا۔ر-۱] معصاف [۱] نہایت نادر اور کمزور چیز۔ نانا پاندا، دکھانے کا۔ جلد ٹوٹنے والا یہ لفظ کاج اور بھوج پتر سے جڑ کر بنا ہے) کا جا۔ [۱-۱] معصاف [۱] کاج۔
 کاجھ۔ [۱-۲-۱] مذ [۱] نا نو کے اوپر لاجتہ۔ جاگھ۔ بن جاگھیا۔ کاجیا۔ آدھا گھٹنا ہے جس میں رباس، ڈوبھانا۔

کا کچھ کھنا۔ [۱-۱] محاورہ [۱-۱] سٹانگ خبرنا۔ جس میں بنا۔ کا کچھ کھوننا۔ [۱-۱] محاورہ [۱-۱] ننگا ہونا۔ ننگو ٹانگوٹا۔ ازاد بند کھوننا ہنگا اُتارنا۔ [۱-۱] اے جی اور بے شرم ہونا، عوام کرنا۔ کا کچھا۔ [ک-۱] کچھا [۱-۱] مذ [۱] جاگھیا۔ گھٹنا۔ کا کچین۔ [ک-۱] چین [۱-۱] مذ [۱] مٹ [۱-۱] مذ [۱] کاجھی کی بیوی، سہری فروش عورت۔ میں مالن۔ کا کچھی۔ [ک-۱] کچھی [۱-۱] مذ [۱] ہندو کچھڑا۔ ہندو سہری فروش۔ کاج۔ [ک-۱] مذ [۱] را، بلند عمارت۔ عمل۔ یوان۔ قصر، بلاخانہ۔ کاڈ [Cod] [ک-۱] ایک قسم کی بڑی بھری چھل جس کا تیل نکالا جاتا ہے۔ کاڈب۔ [ک-۱] ڈب [۱-۱] صفت [۱] دروغ گو۔ جھوٹا۔ صادق کا نقیض۔ کار [Car] [ک-۱] ایک قسم کی گاڑی۔ گاڑی۔ کار [ک-۱] مذ [۱] کام کا۔ دھندا۔ فعل۔ حرکت۔ ہنر۔ پیشہ یا لزعت کہتے گاڑی۔ یہ جنگ و جدل۔ لڑائی۔ رہ۔ مطلب۔ مراد۔ مقصد، مصروفیت۔ شغل۔ [ر-۱] معاملہ۔ ہونا [ر-۱] شادی کی تقریب [ر-۱] عزم۔ واسطہ۔ کار [ک-۱] مذ [۱] دھند۔ کاجھ۔ کاجھ۔ آندوہ کار۔ جہاں دیدہ۔ واقف کار۔ کار [ک-۱] مذ [۱] صفت [۱] کام کا پیدا کرنے والا۔ [ک-۱] خدا ناس۔ کار [ک-۱] مذ [۱] مذ [۱] کام کی حقیقت سے واقف۔ خبردار۔ کار [ک-۱] مذ [۱] مذ [۱] صفت [۱] مفید۔ مطلب۔ کام کا آدمی۔ کام آنے والا۔ سود مند۔ فائدہ مند چیز۔ ضروری۔ کار [ک-۱] مذ [۱] مذ [۱] صفت [۱] کام کیے والا۔ (Apprentice) کار [ک-۱] مذ [۱] مذ [۱] صفت [۱] ہونے سے مستقل ہونے تک کا درمیانی وقفہ (Apprenticeship) کار [ک-۱] مذ [۱] مذ [۱] صفت [۱] آج کا کام کل پر نہ چھوڑ۔ کار [ک-۱] مذ [۱] مذ [۱] صفت [۱] کام نہ کرنا۔ مطلب۔ برابر۔ کار [ک-۱] مذ [۱] مذ [۱] صفت [۱] وہ کام جو لاتہ سے نکل گیا یا ہو گیا۔ کار [ک-۱] مذ [۱] مذ [۱] صفت [۱] تیراڑکان جسٹہ بازمنی آید [ک-۱] مثل [۱] جو بات ہو چکی اس پر انہوں نے نہ کرنا منقول ہے۔ کار [ک-۱] مذ [۱] صفت [۱] مطلب پرست کام لگانے والا۔ کار [ک-۱] مذ [۱] صفت [۱] را، تمیل کرنے والا۔ میل۔ خراب برادر را، میں لانے والا (ہونا کے ساتھ) کار [ک-۱] مذ [۱] مذ [۱] صفت [۱] متجاری۔ [ک-۱] مثل [۱] بندر کا کام آرہ کشتی نہیں کلام ایسی کوسا بے اور کے تو جینا با بے ہر کے واہر کار سے ماخوذ۔ کار [ک-۱] مذ [۱] صفت [۱] کارکن۔ شتلم۔ سربراہ کار۔ کاندہ۔ گماشتہ۔ منفرم۔ کار [ک-۱] مذ [۱] مذ [۱] صفت [۱] کارروائی۔ سربراہی، کارندگی۔ گماشتہ گری۔ کار [ک-۱] مذ [۱] مذ [۱] صفت [۱] نیک کام۔ جھلانی کام۔ تہی کام کار [ک-۱] مذ [۱] صفت [۱] معرکے کا کام، کا اعظم بہم۔ ادوالو العزی بہت ارادہ۔ انگ (Enterprise) کار [ک-۱] مذ [۱] مذ [۱] صفت [۱] ہندو یا اواراجی پر چلا ہے تانی پھلا کر رہتے ہیں۔ کار [ک-۱] مذ [۱] صفت [۱] کاجھ یا کاجھ۔ بن جاگھیا۔ کاجیا۔ آدھا گھٹنا ہے جس میں رباس، ڈوبھانا۔

ہا زردوز کشیدہ کار وہی زردوزی۔

کار چوبی - (دفعہ ۱- مٹ) گکاری - زردوزی کشیدہ کاری - زردوزی کیا ہوا۔

کارخانگی دفعہ - (دفعہ ۱- مٹ) ذاتی معاملات

کارخانہ - وہ کام کرنے کی جگہ - چیزوں کے بنانے اور تیار کرنے کا مقام۔
ہا مکان - کوٹھی - ہا ایک قسم کی اونچی چوکی جس پر بیٹھ کر گوشہ کناری
نہتے ہیں - ہا جلاہوں کا گھر - (دفعہ ۱- مٹ) کاروبار - کام کاج - (دفعہ ۱- مٹ) جلاہ
ہا - (دفعہ ۱- مٹ) خدائی کاروبار - خدائی قدرت۔

کارخانہ آہنی - (دفعہ ۱- مٹ) خدائی کام - معاملات خدا - قدرت خدا۔

کارخانہ پھیلانا - (دفعہ ۱- مٹ) کاروبار شروع کرنا - کاروبار کو وسعت دینا۔
کارخانہ دار - (دفعہ ۱- مٹ) کارخانے کا مالک - وہ شخص جس کا کاروبار
ہو - ہا خانہ ماں - داروغہ باورچی خانہ - (دفعہ ۱- مٹ) میر سامان - بکا دل۔

کارٹیر - (دفعہ ۱- مٹ) مذہبی کام - ثواب یا جھلانی کام ہا ناخیر ہا اصطلاح
لوکی کا کاج - کیا دان۔

کاروار - (دفعہ ۱- مٹ) عمدہ دار - عامل منصب دار - تجربہ کار - واقعہ کار۔

کاروال - (دفعہ ۱- مٹ) تجربہ کار - واقعہ کار - ہا ہنرمند - کاریگر ہا قدر دان
کارشناس - معاملہ فہم۔

کاروائی دفعہ - (دفعہ ۱- مٹ) معاملہ فہمی - واقعہ کار ہونا۔

کارروائی - (دفعہ ۱- مٹ) کارروائی - اجرائے کار - کاروباری - ہا کام کاج -
ہا تعمیل - کارگزاری - ہا تاؤ - ہا قانون - منابطہ - (دفعہ ۱- مٹ) انتظام - بندوبست -
اہتمام - پیروی - (دفعہ ۱- مٹ) زندگی عدالت - رویکاری۔

کارروائی کرنا - (دفعہ ۱- مٹ) کارروائی کرنا - کام چلانا ہا عمل کرنا - تعمیل کرنا -
ہا فرض ادا کرنا - ہا مطلب نکلنا ہا پیروی مقصد کرنا۔

کارزار - (دفعہ ۱- مٹ) لڑائی جنگ - معرکہ - پیکار۔

کارساز - (دفعہ ۱- مٹ) کار کام بنانے والا - کام سنوارنے والا ہا مائع -
تاہ طبع۔

کارسازی - (دفعہ ۱- مٹ) کار کام کرنا - کام بنانا - ہا صنعت - ہنر - حرفت
ہا چالاکی - عیاری - دغا بازی - دھوکا بازی۔

کارسیج - (دفعہ ۱- مٹ) صاحب لیاقت ہا کام سے واقعہ معاملہ فہم -
کارشناس - (دفعہ ۱- مٹ) کار کا مزدور - تجربہ کار - کام جاننے والا۔

کارستانی - (دفعہ ۱- مٹ) شہرت - چالاکی - عیاری - سازش -
کارفرما - (دفعہ ۱- مٹ) کام لینے اور کام بنانے والا - حکم کرنے اور چلانے
والا لیا نڈر ہا بادشاہ - استاد۔

کارکردگی - (دفعہ ۱- مٹ) کارگزاری (Efficiency) اچھا کام۔

کارکردہ - (دفعہ ۱- مٹ) آزمودہ - تجربہ کار۔

کارکن - (دفعہ ۱- مٹ) کام کرنے والا - کارندہ - عامل۔

کار کا ہدف - (دفعہ ۱- مٹ) کام کرنے کی جگہ - کارخانہ ہا جلاہوں کا گھر۔

کارگاہ ہستی - (دفعہ ۱- مٹ) دنیا - جہاں۔

کارگر - (دفعہ ۱- مٹ) موثر - سریع - تاثیر - تیر بہدف ہا فائدہ مند ہونڈ۔

ہا جھلک - بجاری - گہرا - وہی کام کرنے والا - ہنر مند۔

کارگروہنا - (دفعہ ۱- مٹ) موثر ہونا ہا مفید ہونا ہا کاری ہونا۔
کارگزار - (دفعہ ۱- مٹ) کام کرنے اور حکم بنانے والا - خدمت گزار ہا چالاک
ہا حاجت روا۔

کارگزاری - (دفعہ ۱- مٹ) خدمتگزاری - فرماں برداری - تعمیل ہا خدمت -
لوکی ہا ہوشیاری - مستعدی۔

کارگزاری پر پانی پھرجانا - (دفعہ ۱- مٹ) اچھے کام کا جلاہ ملنا - اچھا کام خراب
کردینا۔

کارگزاری دکھانا - (دفعہ ۱- مٹ) اچھا کام کرنا - مستعدی دکھانا۔

کار مردانہ - (دفعہ ۱- مٹ) بہادری کا کام - جرأت کا کام - مردانہ کام۔

کارمند - (دفعہ ۱- مٹ) کام کرنے والا - خدمت گزار۔

کارنامہ - (دفعہ ۱- مٹ) راجنگ نامہ - ہا تمہہ بہادری ہا تاریخی واقعات -
ہا منابطہ - قانون سلطنت - زمین - (دفعہ ۱- مٹ) غیر معمولی کام - یادگاری کام۔

کار نمایاں - (دفعہ ۱- مٹ) بڑا کام - اہم کام۔

کاروبار - (دفعہ ۱- مٹ) کام کاج - وھدا شغل ہا لین دین - بیج ہوا پار۔

کاروباری - (دفعہ ۱- مٹ) کام کاج کا آدمی ہا کارندہ - ہنرمند - منصرم -
ہا تاجر - سوداگر ہا مطلب کی بات کرنے والا۔

کارے وارو - (دفعہ ۱- مٹ) منہ بہت مشکل ہے - کوئی خالہ جی کا گھر نہیں۔

کارے نہ شے - (دفعہ ۱- مٹ) فعل حاصل نہ معمول - یونہی - فغول۔

کاربانک (Carbonic) کاربانک (دفعہ ۱- مٹ) کاربن سے منسوب
کاربانک الیسیڈ گیس (Carbonic Acid Gas) (دفعہ ۱- مٹ)
وہ زہریلی ہوا جو زندہ حیوانات کی سانس اور نباتات سے بکثرت
نکلتی ہے اور آگ جلنے سے بھی پیدا ہوتی ہے۔

کاربن (Carbon) (دفعہ ۱- مٹ) آہنگ - (دفعہ ۱- مٹ) در خالص کوئلہ - کوئلے کی
اصل ہا ایک عنصر جو ہرے کوئلے وغیرہ کی شکل میں پایا جاتا ہے۔

کاربن پلیپر - (Carbon Paper) (دفعہ ۱- مٹ) وہ کاغذ جس کے
ایک طرف مسالہ لگا ہوتا ہے اور اس کے ذریعے کسی تحریر کی نقل
مٹاری جاتی ہے۔

کاربنکل - (Carbuncle) (دفعہ ۱- مٹ) کاربن کل (دفعہ ۱- مٹ) آہنگ - (دفعہ ۱- مٹ) ایک قسم
کا پھوڑا - (دفعہ ۱- مٹ) گوشت خوردہ لعل خوش رنگ ہا شیب چراغ۔

کاربنین - (دفعہ ۱- مٹ) آہ - (دفعہ ۱- مٹ) ایک قسم کی بندوق۔

کارپوریشن (Corporation) - (دفعہ ۱- مٹ) (دفعہ ۱- مٹ) آہنگ - (دفعہ ۱- مٹ)
ہا سند یافتہ جماعت ہا ہا حق یا کیٹیجی قانون کسی کام کے کرنے کی مجاز
ہا ہا بڑی یونین کیٹیجی۔

کارپورل - (Corporal) (دفعہ ۱- مٹ) (دفعہ ۱- مٹ) آہنگ - (دفعہ ۱- مٹ) وھدا
فوج کا ایک چھوٹا عہدہ دار۔

کارٹوس - (دفعہ ۱- مٹ) (دفعہ ۱- مٹ) آہ - (دفعہ ۱- مٹ) بارود بھری گولی جسے بندوق میں بھر کر
سر کرتے ہیں (دفعہ ۱- مٹ) (Cartridge) کارٹریج کا بگاڑ۔

کارٹون (Cartoon) (کار۔ ٹون) (انگ۔ ۱) مذاک تعویری کے ذریعے کسی کا خاکہ اڑانا۔ مزاحیہ تصویر۔
 کارٹونیٹ (Cartoonist) (کار۔ ٹو۔ نیٹ) (انگ۔ ۱) مذاک کارٹون بنانے والا۔
 کارج (کار۔ تج) (کارج) (س۔ ۱) مذاک کام کاج پر تقریباً ہر غرض۔
 مطلب۔ مقدمہ۔ مدعا۔ بہ باعث۔ سبب۔ دہ۔ پیشہ۔ حرفہ۔ شادی کی تقریب۔
 کارج رچنا۔ (۱) محاورہ) شادی بیاہ کا سلسلہ شروع ہونا۔ تقریب کرنا۔
 کارڈ۔ (س۔ ۱) (مٹ) چاقو۔ پھیری۔ ٹھنڈا۔
 کارڈ (Card) (انگ۔ ۱) (مڈ) راجہ پوسٹ کارڈ وہ سرکاری کاغذ جس پر کچھ لکھ کر ہڈیے ٹاک بھیجا جاتا ہے۔ یہ تاش کا پتہ۔
 یا موٹے کاغذ کا ٹکڑا۔
 کارڈ بورڈ (Card Board) سونے کاغذ کا تختہ۔ پٹھا۔ گتہ۔
 کارڈ رائے (Corduroy) (انگ۔ ۱) (مڈ) ایک موٹا سوتی یا جملی پٹا۔
 کارسپانڈنٹ (Correspondent) (انگ۔ صفت) معنیوں نگار۔ نامہ نگار۔
 کارسپانڈنس (Correspondence) (انگ۔ ۱) (مڈ) خط و کتابت۔ مراسلت۔
 کارک (Cork) (انگ۔ ۱) (مڈ) ایک درخت کی چھال جس سے بوتلوں وغیرہ کے ٹاٹ بنائے جاتے ہیں۔
 کارکن (کار۔ کن) (۱) (مڈ) سبب۔ واسطے۔ باعث۔ پہلے۔ خاطر۔ کارنجر۔ (کار۔ کن) (س۔ ۱) (مڈ) چھوٹا حوض۔
 کارندہ (کار۔ ون۔ ڈہ) (س۔ ۱) (مڈ) صفت) صحتی۔ کام کرنے والا۔ (مڈ) مزدور۔ کارکن۔ سربراہ۔ پیغمبر۔ وینٹ۔ مختار۔ گمشدہ۔
 کارنس (Cornice) (کار۔ نیس) (انگ۔ ۱) (مڈ) دیوار کی ننگن۔ منڈیر۔
 کارن فلور (Cornflour) (کار۔ ون۔ ف۔ لور) (انگ۔ ۱) (مڈ) ایک قسم کا چاول کا آٹا۔
 کارنے (کار۔ نی۔ مڈ) (سبب) کارن۔
 کارنیوال (Carnival) (کار۔ نی۔ وال) (انگ۔ ۱) (مڈ) کیتھولک عیسائیوں کا جشن۔ جشن عیش و عشرت۔ رنگ ریلیاں۔
 کاروال (کار۔ وال) (س۔ ۱) (مڈ) قافلہ۔ مسافروں کی جماعت۔
 کاروال سالار (کار۔ وال۔ سار) (س۔ ۱) (مڈ) قافلے کا سردار۔ میر قافلہ۔
 کاروال سرا (کاروال سرا) (س۔ ۱) (مڈ) قافلہ اترنے کی یا ٹھہرنے کی جگہ۔
 کاری (کار۔ ری) (س۔ ۱) (مڈ) صفت) مہیک۔ کارگر۔ کام تمام کرنے والا۔
 گڑا۔ محاری۔ باٹر۔ کارآمد۔ باقاعدہ۔
 کاری (کاری صبح) (Curry) (انگ۔ ۱) (مڈ) شوربے دار

ترکاری اور گوشت۔ ککولات خوردنی۔ ملا ہوا۔ کارٹھا شوربا۔
 کارنیز (کار۔ ریز) (س۔ ۱) (مڈ) کمپٹیوں کو پانی دینے کی بند نالی جو چوٹی نہر و بلوچستان میں آبپاشی کا ہی ذریعہ ہے۔
 کارنیگر (کار۔ ری۔ گز) (س۔ ۱) (مڈ) ہنر مند۔ پیشہ ور۔ دستکار۔ کام بنانے والا۔ راجہ۔ ستادین۔ ماسر۔ کابل۔ ہوشیار۔ سجدہ والا۔ بی۔ پوچی۔ مہار۔ دیوار وغیرہ (۱) کام کو خوب سمجھنے والا۔
 کارگری (کار۔ ری۔ گت) (س۔ ۱) (مڈ) ہنر مند۔ دستکار۔ پیشہ حرفت۔
 رہ۔ استاد۔ بہشتی۔ دی۔ دفتر۔ ایسے۔ سینیگل۔ ناولی۔
 کارٹا (س۔ ۱) (مڈ) کارٹھا۔ جوشاندہ۔
 کارٹھا (کار۔ ٹھا) (س۔ ۱) (مڈ) وہ جوش دی ہوئی گرم دوائیں جو زہر کو پلاستے ہیں۔ انجوائی۔
 رہ۔ جوشاندہ۔
 کارٹھنا (کار۔ ٹھ۔ نا) (س۔ ۱) (مڈ) رہ۔ نکالنا۔ رہ۔ باہر کرنا۔ رہ۔ کھینچنا۔ رہ۔ کشیدہ کرنا۔
 دہ۔ جوش دینا۔ سوتی کام کرنا۔ اٹھا کر لینا۔ رہ۔ انتخاب کرنا۔ رہ۔ نقشہ کھینچنا۔
 رہ۔ موقوف کرنا۔ رہ۔ ہیٹ کرنا۔ رہ۔ دس نکال دینا۔ رہ۔ جالی کا علاقہ سینا۔
 رہ۔ پڑے۔ پھیل پڑے۔ بنانا۔
 کارٹی (س۔ ۱) (مڈ) تنکا۔ تیلی۔
 کارٹی کپٹ (س۔ ۱) (مڈ) کولہ کرکٹ۔
 کاس (س۔ ۱) (مڈ) گائے۔ جبینس یا بھیری کا متن۔ رہ۔ جنوبی ہند کے ایک سکتہ کا نام۔
 کاسب (کار۔ سب) (س۔ ۱) (مڈ) کاسب کرنے والا۔ جج۔ کاسبین۔
 کاسٹ (س۔ ۱) (مڈ) کسی گھٹاؤ۔ بے کم و کاست میں مستقل ہے۔
 کاسٹیا (کار۔ سٹ) (س۔ ۱) (مڈ) ولایتی۔
 کاسٹ (Cast) (انگ۔ ۱) (مڈ) ایٹروں کی جماعت جو کسی کیل میں کام کرے۔
 کاسٹنگ ووٹ (Casting Vote) (کاس۔ ٹنگ) (س۔ ۱) (مڈ) ووٹ (انگ۔ ۱) (مڈ) صدر کا ووٹ۔ رائے فیصل جو دو برابر کے فریقوں میں فیصلہ کرے۔
 کاسٹرائل (انگ۔ مڈ) رائے کا تیل جو دست آور ہے۔
 کاسڈ (کار۔ سڈ) (س۔ ۱) (مڈ) صفت) کھوٹا۔ غیر خالص۔ ناقص۔ جس کا راجہ نہ ہو۔
 کاسر (کار۔ سر) (س۔ ۱) (مڈ) صفت) آ توڑنے والا۔ جج۔ کاسبزنی۔
 کاسرور یا ج (س۔ ۱) (مڈ) صفت) ریاں کو توڑنے والا۔
 کاسف (س۔ ۱) (مڈ) بڑے۔ پدمتی کے (دن) کاسمیٹکس (Cosmetics) (کاس۔ سے۔ ٹیس) (انگ۔ ۱) (مڈ) آرائش جمال کی اشیاء۔ غانہ۔ آئین وغیرہ۔
 کاسنی (کاس۔ نی) (س۔ ۱) (مڈ) ایک دریا کا نام جو سرد اور واضح بخار سے۔ ایک رنگ۔
 کاسنی رنگ (س۔ ۱) (مڈ) ہلکا رنگ۔ بنیشی۔
 کاسنڈ (کار۔ سنڈ) (س۔ ۱) (مڈ) کھولنا۔ چالہ۔ بادیاہ۔ ہیک کاٹھیکر۔
 کاسنڈ (کار۔ سنڈ) (س۔ ۱) (مڈ) دھوئیا۔ رہ۔ عام۔ خاصہ۔
 کاسر باز (س۔ ۱) (مڈ) شجہہ باز۔ بازی کرنا۔ شکار۔ حید باز۔

کال کھیلنا - (۱- محاورہ) منتر کے اثر سے سانپ کا کھیلنا۔
 کالامنہ - (۱- محاورہ) کلمہ شہر و دعائے بد را دور ہو۔ منہ نہ دکھا۔
 پر سے ہٹ رہا رُوسیاہ -
 کالامنہ کر جگ دکھلاوے - تب لاگن کی لالی پاوے۔ (۱- مثل)
 آدی بدیائی جھیل کر اور شفقت اٹھا کر نام روشن کرتا ہے۔
 کالامنہ کروا (۱- روزمرہ) دغ ہوجا۔ ڈور ہوجا۔
 کالامنہ کرنا - (۱- محاورہ) کسی کام نہ کال کرنا، عیب لگانا۔ لے عزت کرنا۔
 پہن چھوٹنا۔ تنک کرنا، نکال دینا، ہڑاکام کرنا۔ زنا کرنا۔
 کالامنہ کرل کے دانت - (۱- مثل) سب میں بھڑی ہوئی ہیں۔
 کالامنہ نیلے ہاتھ پاؤں - (۱- کلمہ شہر و دعائے بد) جب عورتیں کسی سے ناراض یا
 بیزار ہوتی ہیں۔ تو یہ کلمہ زبان پر لاتی ہیں۔
 کالامنہ ہو - (دعائے بد) ڈوسا ہو۔ بدنام ہو۔
 کالامنہ ہونا - (۱- محاورہ) ہا، منہ کا کال یا مابا ناروسیاہ ہونا، بدنام اور سلسا ہونا
 ہا، نکالاجانا۔ رہ دغ ہونا۔
 کالانگ - (۱- روزمرہ) مارسیاہ، بی موذی، ظالم۔ اذراساں۔ تکلیف دہ۔
 کالاننگ - (۱- لہجہ) ایک سیاہ رنگ کانگ جو دلوں میں
 استعمال ہوتا ہے۔
 کالابرن مت مار یو ستر ہو جائیں گی رائنہ - (۱- مثل) ایسا آدی نہرے
 جس کے ہاتھ میں بہتوں کی روزی ہو۔
 کالے پانی بھیجا - (۱- محاورہ) جلا وطن کرنا۔ عبور دیا سے شور کرنا۔
 کالے پتل چاہنا - (۱- محاورہ) نہایت ہڑاکام کرنا۔ جڑے کاموں کی سزا
 جھگٹنا، ہا احسان اٹھانا۔
 کالے تل چہوانا - (۱- محاورہ) غلام بنالینا۔ مول لے لینا۔ ملیغ و فرماں بردار
 بنالینا۔ احسان مند بنانا۔
 کالے سرکاہ - (۱- لہجہ) انسان، بی، بی آدم، بہ جوان آدی گھرو۔
 کالے سرکا ایک نہ چھوڑا - (۱- مثل) چھان عورت کے بارے میں بولتے
 ہیں۔ یعنی کوئی جوان مرد نہیں چھوڑا۔
 کالے کا کالٹا بانی نہیں مانگتا - (۱- مثل) را، سانپ کے کاٹے کا پنا حال
 کالے کے کاٹے کا نہ جتنے نہ منتر ہے۔ را موذی، دغا باز اور فریبی آدی
 کالے کے کاٹے کا منتر نہیں اسے پہنا مشکل ہے۔
 کالے کوس (کوسوں) - (۱- لہجہ) را، دور دراز کا راستہ، رہ جیسے کوس مہیوں
 اور برسوں کی راہ۔
 کالے کوٹے کھائے ہیں - (۱- مثل) علوم کا اعتقاد ہے کہ جو کالے کوٹے
 کا گوشت کھاتا ہے اس کے بال سفید نہیں ہوتے۔ جب بڑھالے
 میں بھی کسی کے بال سفید نہ ہوں۔ تو ایسے شخص کی نسبت بولتے ہیں۔
 کالے کی سی لہر آنا - (۱- مثل) را، بھبی بھی جنوں کا، بھرا آنا، کبھی بھبی
 سانپ کی طرح لہر باجال جیلنا۔
 کالے کے آگے چراغ نہیں جلتا - (۱- مثل) از بدست کے آگے کچھ
 پیش نہیں جاتی۔ چونکہ کالے سانپ کی چھکار کے سامنے چراغ

رہ، قلت - کمی - توڑا - (۱- سیاہ - کالا ری، وصف) کہنہ - پرانا - نای۔
 مشہور۔
 کال بجز - (۱- صفت) بہت دنوں کی پڑی ہوئی بجز زمین۔
 کال پڑنا - (۱- صفت) را، قحط ہونا، خشک سالی ہونا، رہ، تھوڑا ہونا۔ کسی ہونا۔
 توڑا ہونا۔
 کال - ٹین - (۱- کالٹین) - (۱- صفت) نہایت کالا - جیشی - کالیا۔
 کال جواری - (۱- ۲- ۱- مذ) نای جوئے باز - بڑا بھاری جواریا۔ نای قمار باز۔
 کال کا ٹوٹا - (۱- صفت) قحط زدہ - مجھو کا کنگال۔
 کال کا مارا سب جگ لہرا - (۱- مثل) مجھو کا مارا نہیں پھپتا۔ موت کا
 مارا نہیں پھپتا۔
 کال کر جانا - (۱- محاورہ) مرجانا۔ انتقال کر جانا۔ گزر جانا۔
 کال کوٹھڑی - (۱- صفت) را، اندھیری کوٹھڑی، رو تید تہائی۔
 کال کے ہاتھ کمان، نہ بٹورھا چکے نہ جوان - (۱- مثل) ظالم آدی یا تو
 کے ہاتھ سے کسی کو پناہ نہیں۔
 کال آنا - (۱- محاورہ) موت کا وقت آنا۔
 کال - (۱- کالا) - (۱- صفت) را، سیاہ - اسو، ہا، مذ) کالے رنگ کا آدی۔
 سیاہ نام پر سانپ - ناگ - مارسیاہ۔
 کال آدی - (۱- مذ) حقارتا، را، دین آدی - نیٹو، ہا جیشی - افریقہ کا آدی۔
 کالابال - (۱- مذ) موئے زار - جھانٹ کا بال، کنیشہ ناچیز - ادنی اور
 حقیر شے۔
 کالاجھٹ - (۱- جھنگ) - (۱- صفت) بہت زیادہ کالا۔ نہایت کالا۔
 از حد سیاہ۔
 کال پانی - (۱- جزائر اٹلیاں جہاں ہندوستان سے عمر تیدی جیسے جاتے تھے
 رہ عبور دیا سے شور - عمر تید - جس دوام رہ سمندر کا پانی جو سیاہ
 نظر آتا ہے۔
 کالاپہاڑ - را، کوہ سیاہ جو پاکستان کے شمال مغرب میں واقع ہے، ہا، جانا، آدی
 نیل ہا، انسان کا سر - سیس، ہا ناگوار ملیغ - اجیرن - آفت - ممیبت۔
 کالاتل - (۱- مذ) خال سیاہ (۲) کبھی سیاہ۔
 کالاپور - (۱- مذ) نای چور - بڑا بھاری چور، ہا چوروں کا سردار، ہا معلوم
 الام۔
 کال دانہ - (۱- مذ) سپندر - ہرل - عورتیں نظر بد کے دفعیہ کے لیے اس کو
 جلاتی ہیں۔
 کال دیو - (۱- مذ) کنیشہ بہت کال آدی - قوی سیکل آدی۔
 کالازیرہ - (۱- مذ) ایک قسم کا خوشبودار زیرہ - زیرہ سیاہ۔
 کال کرنا - (۱- محاورہ) سیاہ کرنا، ہا خند لکھنا، ہا مدخل کرنا۔
 کالاکوٹا - (۱- صفت) نہایت کالا - جیشی۔
 کالاکوٹا - (۱- مذ) بڑا کوٹا - پناہی کوٹا - کاگ۔
 کالاکوٹا کھایا ہے - (۱- محاورہ) دیکھیے کالے کوٹے کھائے ہیں۔
 کالاکوٹک - (۱- صفت) نہایت سیاہ کالا کوٹا - کالاجھنگ۔

کالونی (Colony) (کا۔ لونی، ڈنگ) ۱۔ اہمیت کا، نمائندگی۔ نوآبادی۔
 ۲۔ کسی نئی جگہ بیرونی لوگوں کی آبادی جن کا سیاسی تعلق اپنے وطن سے ہو۔
 کالونے (کال۔ وسے) ۱۔ ذرا چھوٹا ٹپ۔
 کالی (کا۔ لی) ۱۔ ۲۔ صفت [کالا کی تائید] سیاہ کالے رنگ کی۔ سود
 بہ۔ ۳۔ اہمیت [دیکھ دیوی کا نام] جس کا رنگ سیاہ ہے۔ ڈرگا۔ کالگا۔
 پڑا، شیوہ کی استری چارتی۔ یہ روشنائی (رق) [کالی آندھی] (۱۔ اہمیت) وہ آندھی جس کے گرد سے اندھیرا اٹھتا ہے۔
 کالی آنکھ۔ (۱۔ اہمیت) سیاہ آنکھ جو خوبصورتی کی دلیل ہے۔
 کالی بلبل کالی راست کارنے والے تیری عمر دراز۔ ۱۱۔ مثل (خوب بات کہینا)
 کالی بھیر۔ (۱۔ صفت) پاجی۔ بدنام۔ بدماش (راگ) (Black Sheep)
 کالی بولا۔ (۱۔ اہمیت) وہ نہایت کالی پڑیل۔ [جبتی۔ پچھلائی] ہوسنت مصیبت پتا۔
 یہ کالی اور بدسورت عورت۔
 کالی سیلی آنکھیں کرنا۔ اصل مجاورہ ہے۔ نیلی سیلی آنکھیں کرنا بڑے غصے کا
 اظہار کرنا۔
 کالی جمعرات۔ (۱۔ اہمیت) وہ دن جو مقرر نہ ہو۔ فرضی روز و شب۔ وعدہ ٹالنے
 کے موقع پر بولا جاتا ہے۔
 کالی دیوی۔ (۱۔ اہمیت) وہ کالی دیوی۔ ڈرگا۔ کارکا۔ اناجیم۔ اینوں۔
 کالی زبان۔ (۱۔ اہمیت) سیاہ زبان۔ جس کے متعلق علوم کا اعتقاد ہے کہ اس کی
 بددعا اور لعنتی ہے۔
 کالی زیری۔ ایک قسم کا سیاہ زیرہ۔
 کالی ستیلا۔ کالی مانتا۔ (۱۔ اہمیت) چمپک جس کے والے سیاہ ہوتے ہیں۔
 کالی کلوی۔ (۱۔ اہمیت) نہایت سیاہ۔
 کالی کھانسی۔ (۱۔ اہمیت) ایک قسم کی کھانسی جو اکثر بچوں کو ہوتی ہے۔
 کالی گھٹا۔ (۱۔ اہمیت) ابر سیاہ۔ سیاہ یا دل۔
 کالی گھٹا ڈراؤنی، صبور ہی برسوں مار۔ (۱۔ مثل) جو شی خورے اور کجاس نہیں
 سوتے وہی کام آتے ہیں۔
 کالی مٹی۔ (۱۔ اہمیت) جو بڑھتی چلتی مٹی جو پینے پونے کے کام آتی ہے۔
 کالی مریض۔ (۱۔ اہمیت) سیاہ مریض بہ نسبتاً کم ہی ملتا۔
 کالی ماٹھی سر پر دھرتا۔ (۱۔ مجاورہ) بدنام ہونا۔ رسوا ہونا۔ رسوائی
 اختیار کرنا۔
 کالی سڑ۔ (۱۔ مجاورہ) ہلکا سیاہ بھوٹی بڑھ۔
 کام۔ (۱۔ اہمیت) راجا، خواجہ، شہوت، راجہ، مثل ہی، کامنا۔ اچھا بری۔
 کام لوی۔ (۱۔ اہمیت) خواجہ، شہوت، کادیوتا، توت باہ۔ خواجہ، جامع۔
 کام۔ (۱۔ اہمیت) راجہ، کار، کاج۔ کاروبار۔ دھندا۔ مثل ۲۔ بیماریوں کی۔
 بیچ۔ بیچارہ۔ (۱۔ اہمیت) جو کھوت کر دیا، بہر۔ پیشہ۔ دستکاری کی مثل۔
 مصروفیت، مطلب، واسطہ، تعلق، غرضی، جامع، جماعت۔
 وہی روزگار۔ نوکری، خدمت، روز و روزی۔ کاروباری۔ نقاشی، مافرض۔
 ڈوٹی، چالاکی، پوکھاری، عیاشی، ضرورت۔
 کام آٹھنا۔ (۱۔ مجاورہ) ضرورت پیش آنا۔ غرض اٹھنا

نہیں جلتا۔ اس سبب سے یہ مجاورہ بن گیا کہ زور اور کے سامنے کمزور
 کی نہیں چلتی۔
 کالے کے منہ میں آنکلی دینا۔ (۱۔ مثل) ایسا کام کرنا جس میں جان کا خطرہ
 ہو۔ جان بوجھ کر خطرہ مول لینا۔
 کالے منہ اندھیرے۔ (۱۔ تالیف، فصل) نہایت سویرے فورے تڑکے سے
 پیدے علی الصبح۔
 کالانعام۔ (کل۔ ان۔ عام) ۱۔ صفت [چوپایوں کی مانند] بیوقوف۔
 کالہنڈ۔ (کال۔ ہنڈ) ۱۔ مذرا، قالب، ڈھانچ۔ ڈھانچا، جسم۔ تن بیلن
 سر پر۔ ہنڈ سنا۔ وہ اوزار جس میں کوئی چیز ڈھالیں۔
 کالہوت (کال۔ ہوت) ۱۔ ڈر۔ ۱۔ دیکھئے کالہنڈ، جو تے کے اندر چھینا
 کر اسے اٹھانے والی کٹری۔
 کالہوت چڑھانا۔ (۱۔ مجاورہ) جو تیار کر کے اس کے اندر کٹری کا بنا ہوا پاؤں
 رکھنا۔ تنگ چوتے کو قالب پر چڑھ کر ٹھیک کرنا۔
 کالج۔ (College) (کا۔ لج) ۱۔ ڈنگ۔ ۱۔ مذرا، بڑا مدرسہ۔
 مدرسہ العلوم، ذرا علوم جو کسی یونیورسٹی سے تعلق ہو، کسی خاص پیشے کی تعلیم گاہ۔
 یہ مجلس، انجمن، جمیعت۔
 کالجیٹ۔ (Collegiate) (کا۔ لج) ۱۔ ڈنگ۔ ۱۔ مذرا، کالج کا طالب علم۔
 کالج میں تعلیم پانے والا۔
 کالر۔ (Collar) (کا۔ لڑ) ۱۔ ڈنگ۔ ۱۔ مذرا، کنٹھا، گلوبند۔ ریٹا۔
 حلقہ۔ طوق گردن پر تھیں میں کربان سے اوپر کا ڈانڈ کپڑا جو خوبصورتی
 کے لیے لگاتے ہیں۔
 کالرا۔ (Cholera) (کال۔ را) ۱۔ ڈنگ۔ ۱۔ مذرا، ہیمنہ۔
 کالعدم۔ (کل۔ ع۔ کم) ۱۔ صفت [معدوم] ناپید۔ گویا کہ بسے
 ہی نہیں۔
 کالک۔ (کا۔ نک) ۱۔ اہمیت [سیاہی، زوالی، عیب]۔
 کالک کا ٹیکسا۔ (کا۔ ا۔ مذرا، سیاہی کا داغ۔ دھبہ) ۲۔ بذنابی۔
 ذلت۔
 کالک کا ٹیکسا لگنا۔ (۱۔ مجاورہ) بدنام ہونا۔ رسوا ہونا۔ داغ لگنا۔ ذلت
 نصیب ہونا۔ کانک لگنا۔
 کالکا۔ (کال۔ کا) ۱۔ اہمیت [کالی دیوی۔ ڈرگا۔ کالے رنگ
 کی دیوی جسے سبندو چوتے ہیں۔
 کالم۔ (Column) (کا۔ لم) ۱۔ ڈنگ۔ ۱۔ مذرا، صفحہ کا قطر (ضوفا)
 اخبار کا)۔ خند۔ یہ نوع کا ایک دستہ۔
 کالعدم۔ (کل۔ ع۔ کم) ۱۔ صفت [دیکھئے کالعدم]۔
 کالقبش فی الخیر۔ (کل۔ قبش۔ یقین۔ مثل) ۱۔ صفت [چتر
 کی تیکر کی طرح پائدار۔
 کالنگٹ۔ (کا۔ ا۔ مذرا، صفت کے وقت کا ایک داگ۔
 کالوا۔ (کال۔ وا) ۱۔ ڈنگ [چشمہ، ندی، نہر]۔
 کالواٹ۔ (کال۔ واٹ) ۱۔ ڈنگ [مذرا، ہرن (نر)]

کام آخروں ہونا - (۱) محاورہ) را کام پورا ہونا ۲، مرنا - دم نکلنا - قریب مرگ ہونا۔
 کام آنا - (۱) محاورہ) را کار آمد ہونا - مفید مطلب ہونا یا مناسب جگہ خروج
 ہونا۔ بہ مدد کار ہونا - سہارا دینا، رہی مارا جانا۔ لڑائی میں ہلاک ہونا۔
 رہ، خروج ہونا، استعمال میں آنا۔ رہ، نیک لگنا۔ ٹھکانے لگنا۔
 کام اڑکار ہونا - (۱) محاورہ) کام گڑکار ہونا۔
 کام اٹکانا - (۱) محاورہ) کام روکنا یا کام میں رکاوٹ ڈالنا۔
 کام اٹھا رکھنا - (۱) محاورہ) کام ملتوی کرنا۔ کام باقی رکھنا
 کام اٹھا لینا - (۱) محاورہ) کام اپنے ذمے لے لینا۔ برداشت کرنا۔
 کام اڈھورا رکھنا - (۱) محاورہ) کام کو نامکمل رکھنا۔
 کام بٹانا - (۱) محاورہ) کسی کام کی تعظیم دینا۔ کام سکھانا۔ کام پر لگانا۔
 کام بٹانا - (۱) بٹالنا - (۱) محاورہ) کام میں شریک ہونا۔ مدد کار ہونا۔
 کام بر آنا - (۱) محاورہ) مراد پوری ہونا۔ مقصد حاصل ہونا۔
 کام بڑھانا - (۱) محاورہ) را کام بڑھانا۔ کام ختم کرنا یا کام کو طول دینا یا کام کو
 ترقی دینا۔ بڑھانے کو وسعت دینا۔
 کام بگاڑنا - (۱) محاورہ) را کام خراب کرنا کسی کے کام یا مطلب میں خلل ڈالنا۔
 رہ سنا کہو دینا۔ بے عزتی کرنا۔
 کام بگڑنا - (۱) محاورہ) کام خراب ہونا یا معاملہ بگڑنا یا بات میں فرق آنا۔
 یہ کام میں فرق آ جانا رہ، نوکری کا چھوٹ جانا، دیوانہ نکل جانا۔
 کام بنا رہنا - (۱) محاورہ) اقبال کا یا اور ہونا۔ زمانہ کا حسب مراد رہنا۔ دور
 دورہ رہنا۔
 کام بننا لینا - (۱) محاورہ) مطلب حاصل کر لینا۔
 کام بنانا - (۱) محاورہ) را کام درست کرنا یا کوئی چیز بنانا یا یہ مطلب نکلانا۔
 مقصد پورا کرنا۔ ارمان پورا کرنا یا کام تیار کرنا۔
 کام بن جانا۔ کام بننا - (۱) محاورہ) مطلب پورا ہونا۔ مراد بر آنا۔ کامیابی
 حاصل ہو جانا یا کام درست ہونا۔
 کام بھگتانا - (۱) محاورہ) کام پورا کرنا۔ کام نٹھانا۔ کام کو انجام دینا۔
 کام پر جانا - (۱) محاورہ) کام کرنے جانا۔ مزدوری پر جانا۔
 کام پر لگانا - (۱) محاورہ) کسی خدمت پر مقرر کرنا یا کسی کام کے سیکھے میں مصروف
 کرنا یا مزدوری پر لگانا۔
 کام پر دیدہ لگنا - (۱) محاورہ) کام میں ہی لگنا۔
 کام پڑا رہنا - (۱) محاورہ) کام کا مکمل نہ ہونا۔
 کام پڑنا - (۱) محاورہ) تعلق ہونا۔ غرض ہونا۔ واسطہ پڑنا۔ پالا پڑنا۔
 کام پینا یا اسے چام پینا یا نہیں - (۱) شغل) انسان کی قدر اس کے کام سے
 ہوتی ہے نہ اسے چڑھے سے کسی کو کیا پیار۔
 کام تیننا - (۱) محاورہ) کام بھوڑ دینا۔ دھندلا چھوڑ دینا۔ ترک کر دینا۔
 کام نقدیر پر چھوڑنا - (۱) محاورہ) کام کو اللہ کے حوالے کرنا۔
 کام تمام کرنا - (۱) محاورہ) کام پورا کرنا یا کام کو پہنچانا۔ رہ، مار ڈالنا۔
 رہ، ہلاک کر دینا۔
 کام چڑھانا - (۱) محاورہ) کسی کل یا شین وغیرہ پر کام لگانا

کام چلانا - (۱) محاورہ) مطلب برآی کرنا یا کارروائی کرنا یا بندوبست کرنا۔
 یہ کاروبار چلانا رکھنا یہ انتظام کرنا۔ رہ، وقت سے کام نکلانا۔
 کام چلاؤ - (۱) صفت) ضرورت پوری کرنے کے لائق۔ گزارے کے
 قابل۔
 کام چلنا - (۱) محاورہ) مطلب نکلنا یا کارروائی ہونا یا گزر ہونا۔ بسر ہونا۔
 یہ ہاتھ تنگ نہ ہونا رہ، کاروبار جاری رہنا۔
 کام چمکنا - (۱) محاورہ) کاروبار ترقی پر ہونا۔ کام کاروبار ترقی پر ہونا۔
 کام چھوٹ ہو جانا - (۱) محاورہ) کام خراب ہو جانا۔
 کام چور - (۱) صفت) سست۔ قابل۔ کام سے دل چرانے والا۔ نکمّا۔
 کام چور نوالے حاضر - (۱) مثل) سست اور قابل آدمی جو کام تو نہ کرے مگر کھانے
 پر آجھوڑ ہو۔
 کام چھیڑنا - (۱) محاورہ) کوئی کام جاری کرنا۔ عمارت شروع کرنا۔
 کام دار - (۱) کا مدار - (۱) صفت) را کارکن۔ عہدیدار یا مزدوری پازری کا کام
 کیا ہوا۔ (جیسے کا مدار جوئی)
 کام دانی (کا مدانی) - (۱) مثل) را وہ بیشی کپڑا جس پر سونے چاندی کے تاروں
 سے بوٹے کاٹھے کیے ہوں۔
 کام ڈولھا ڈھن ہی سے پڑتا ہے - (۱) مثل) آپس کا معاملہ آپس میں
 ہی میں طے ہوتا ہے۔
 کام دھندا - (۱) را مذ) کاروبار۔ کام کاج - شغل۔
 کام دیکھنا - (۱) محاورہ) کام کی پڑتال کرنا۔ معائنہ کرنا۔
 کام دینا - (۱) محاورہ) را کام آنا۔ حاجت روائی کرنا۔ رہ، ہمدہ یا خدمت سپرد
 کرنا۔ رہ، کام سپرد کرنا یا کوئی کام بنانے کو دینا۔ رہ، مدد دینا۔
 کام دھننا - (۱) محاورہ) کام قابو میں آنا۔ کام اٹھا اور کبھی ہونا۔
 کام ڈالنا - (۱) محاورہ) پالا ڈالنا، سرور کار ہونا۔
 کام رکھنا - (۱) محاورہ) غرض یا مطلب ہونا۔ تعلق ہونا۔
 کام لڈنی - (۱) ص - (۱) صفت) شہوت انگیز، حیدت، من موہنی یا خوبصورت۔
 کام لڑ جانا - (۱) محاورہ) کام پورا نہ ہونا۔
 کام رہنا - (۱) محاورہ) سرور کار رہنا۔ واسطہ رہنا۔
 کام سپرد ہونا - (۱) محاورہ) کام حوالے ہونا۔
 کام سنکھانا - (۱) صفت) کوئی ہنر سیکھنا۔
 کام عسوارنا - (۱) صفت) بگڑے ہونے کا کوٹھیک کرنا۔
 کام سے جاتے رہنا - (۱) محاورہ) را مطلب کا نہ رہنا۔ قابل استعمال نہ رہنا۔
 رہ، موقوف ہو جانا یا نامر ہو جانا۔
 کام سے کام رکھنا - (۱) محاورہ) کام سے کام ہونا۔ (۱) محاورہ) اپنے مطلب سے مطلب
 اور غرض سے غرض ہونا یا رکھنا۔
 کام کا - (۱) صفت) کارآمد۔ معنی مطلب۔
 کام کا آدمی - (۱) صفت) را، اچھے طرح کام کرنے والا آدمی یا ہوشیار اور تجربہ کار
 آدمی۔

کام کااج - (۱) مذکر کا دربار، معاملہ، بیوپار۔ (۲) دین پر تقریب (شادی کی)۔
 کام کاچی - (۱) رومٹی، سپرٹل۔ (۲) کسی یا شخص کسی پیشے میں مصروف ہو۔
 کام کا نہ کاج کا - (۱) شہنشاہاناج - (۲) ایشلسہست اور کابل آدی جو کھانے کے سوا اور کسی کام کا نہ ہو۔
 کام سے لگنا - (۱) محاورہ) فکر ہونا۔ ملزم ہونا یا خدمت پر مقرر ہونا۔
 کام فرمانا - (۱) محاورہ) عمل میں لانا۔
 کام کا نہ رکھنا - (۱) محاورہ) بیکار کر دینا۔
 کام کر جانا - (۱) محاورہ) اتر دیکھنا۔ کارگر ہونا۔ کامیاب ہونا۔
 کام کرنا - (۱) محاورہ) را کار دہا میں لگنا یا کوئی شغل کرنا یا فائدہ مند ہونا یا اثر کرنا۔ خوش ہونا، مدد طلب پورا ہونا۔ کامیاب ہونا، کار فرمایاں کرنا یا ہم صحبت ہونا۔ بیجا مت ہونا، رنٹل کرنا یا کوئی عجیب کام کرنا یا کام دینا۔
 کام کرنے کی سوزا میں ہیں نہ کرنے کی ایک نہیں - (۱) ایشلس) کام صدق نیت سے کیا جائے تو کسی طریقے تکل آتے ہیں اگر نہ کرنے کی نیت ہو تو کوئی طریقہ نہیں نکلتا۔
 کام کرے سپاچی نام ہو سوزا کر - (۱) ایشلس) دیکھنے کاٹے باڑھ نام تلو را کا۔
 کام کو آں ملل ا کھانے کو بھوں ایشلس) بتا دی کام کے وقت تو میسے بہانے کر سے اور کھانے کے وقت آ موجود ہو۔ اس کے متعلق کہتے ہیں۔
 کام لگانا - (۱) محاورہ) نیر کا کام شروع کرنا۔
 کام لگنا - (۱) محاورہ) غریز لگنا۔ کسی کے متعلق کوئی کام ہونا یا سروکار ہونا۔
 کام لو دا م دو - (۱) محاورہ) کام دیکھ کر ابرمت دو۔
 کام لینا - (۱) محاورہ) را کام کرنا یا دفتر کا کام نبھانا یا اختیار کرنا یا بٹیک لینا رہ، کسی بات کا زور لینا۔
 کام ٹی ہونا - (۱) محاورہ) کام خراب ہونا۔
 کام ملنا - (۱) محاورہ) کوئی عہدہ یا نوکری ملنا۔ ٹیکے لینا۔ کام حاصل ہونا۔
 کام میں کام لگنا - (۱) محاورہ) را ایک کام کے ساتھ دوسرا کام بھی کر لینا۔
 ایک کام میں دوسرا کام لگانا یا ایک دوسرے کے ساتھ دوسرا کام بتا دینا۔
 کام میں لانا - (۱) محاورہ) را استعمال یا برتنا و میں لانا بہ صرف کرنا یا اٹھانا۔
 کام میں کاتھ ڈالنا - (۱) محاورہ) کوئی کام شروع کرنا، کسی معاملے میں دخل دینا۔
 کام ہونا - (۱) محاورہ) را ضرورت پڑنا یا مطلب حاصل ہونا یا جان سے جانا۔ یہ کام تمام ہونا۔
 کام - (۱) مذکر کا تلو - (۲) حلق - (۳) دیان - (۴) منہ - (۵) مراد - مقصد - مطلب یا خواہش - (۶) آرزو۔
 کام بخش (دفعہ) آرزوؤں یا خواہشوں کے مطابق خوشی دینے والا آرزو میں ہو کر کرنے والا۔
 کام لان (کامران) (دفعہ) صاحب نصیب - اقبال مند - بخاورد - کام رانی (کاسرانی) (دفعہ) (۱) مسٹ خوش نصیبی۔ (۲) اقبال مندی۔

کام روا ہونا - (۱) جس مرکب کا میب ہونا۔
 کام کار - (دفعہ) (دفعہ) خوش نصیب - اقبال مند۔
 کام یاب (کامیاب) (دفعہ) صفحہ فتح مند، کامران مظفر منصور۔
 کام یابی (کامیابی) فتح یابی نصرت نظفر - بہرہ مندی۔
 کاما - (Comma) (انگ) (۱) مذکر [کستہ] عمارت میں ٹھہراؤ کی علامت۔
 کامائی (کامائی) (دفعہ) (۱) مسٹ [راج - مہار۔
 کامرس (Commerce) (کامرس) (انگ) (۱) مسٹ [ہا، تجارت - سوداگری - بیوپار، ہوناش کا ایک کھیل۔
 کامرٹیدہ (Comrade) (کام - رٹید) (انگ) (۱) مذکر [یار - ساتھی - رفیق - ہمدم۔
 کامل (کامل) (دفعہ) (۱) مسٹ [دعا - پورا - تمام - سب - سموجا - جملہ - ماہر - کارچکر یا پہنچا ہوا - عارف - خدارسیدہ - خوارسیدہ - فاضل اجل و مہمنا - کامل العیال (دفعہ) نہایت اعلیٰ جاں چلن - معیار کے مطابق - کھرا۔
 کامل شین (دفعہ) (دفعہ) کسی فن کا ماہر - ماہرین۔
 کامل ہونا - (۱) محاورہ) کسی کام میں پورا ہونا - پکا ہونا - اُستاد ہونا یا عارف ہونا - خدارسیدہ ہونا - پہنچا ہوا ہونا۔
 کاملیٹ - (Camlet) (کام - لیٹ) (مہندہ - ایشلس) [ڈاؤٹ کی اڈن اور ریشم کا بنا ہوا ایک کپڑا۔
 کامن ویلتھ - (Commonwealth) (کامن - ویلتھ) (انگ) (۱) مسٹ [دوست مشترکہ] برطانیہ کے آزاد کردہ ممالک کی برادری جس کا سربراہ برطانیہ ہے۔
 کامنا - (س) - ایشلس) [تقاضا - آرزو - خواہش - ہمشہوت۔
 کامنی - (کام - نی) (۱) مسٹ) نہایت خوبصورت ٹورت - حینہ ہا نازک اور ڈبلی عورت یا ایک خوشبودار جھیل۔
 کامو - (کام - مو) (دفعہ) (۱) مذکر [مالکوں - راگ کی ایک قسم جس کے وقت گانے ہیں کامون - (دفعہ) (۱) مذکر [پروہ۔
 کامونی - (کام - نی) (۱) مسٹ) [زبردہ لاکرنیائی ہوئی ایک قسم کی ہجمن - کرنی۔
 کامی - (کام - می) (۱) مسٹ [کاروباری - کام میں لگا ہوا را کام کا - کارآمد - بہرہ - عیاش - شہوت پرست۔
 کامیڈی - (Comedy) (کام - ڈی) (انگ) (۱) مسٹ [طربہ - ایسا ڈراما یا کھٹہ جس کا انجام خوشی پر ہو۔
 کامیڈین - (Comedian) (کام - م) (ڈی) (انگ) (۱) مذکر [طرہ نگار - خوش ن ڈرامے کھنے والا بہ نقال - جھانڈ - سوانگیا - سخاوتیٹر۔
 کان - (دفعہ) (کان)۔
 کال - (۱) مذکر [کھنے کا معنہ] خوش رہا ممت - سننے کی قوت پہنچا رہا کی کی ٹیڈہ - بل - کھاؤ رہ کپڑے کا ایک گونڈا، ایک چھوٹا جاکٹ کی بوج سے ہو جاتا ہے رہ، (دعا) توبہ - دھیان - [خودتوں کے کان کا ایک زیور یا دستار - تیرہ و غیرہ کی کوئی۔
 کان آشنا ہونا - (۱) محاورہ) کسی بات کا آشنا ہونا۔

کان پڑی کام آتی ہے۔ (۱- نفل) سُنی سُنی بات کبھی نہ کبھی کام آ
ہی جاتی ہے۔

کان پکڑ کے اٹھا (نکال) دینا۔ (۱- محاورہ) زبردستی اٹھا دینا یا
نکال دینا۔ بے عزت کر کے نکال دینا۔

کان پکڑ کے اٹھانا۔ بٹھانا۔ (۱- محاورہ) (۱۱) کان پکڑ کے کبھی اٹھانا
اور کبھی بٹھانا۔ شاگردوں کی ایک قسم کی سزا (۲) نہایت مطیع اور
فرمانبردار بنانا۔

کان پکڑنا۔ (۱- محاورہ) (۱) کان مروٹنا (۲) قائل ہونا۔ آستنا و تسلیم
کرنا۔ (۳) توبہ کرنا۔ عہد کرنا۔ (۴) اجتناب کرنا۔ پرسہیز کرنا۔ (۵)
پتوں کی ایک طرح کی سزا۔ (۶) عاجزی کرنا۔ (۷) اطاعت کرنا
(۸) اپنے آپ کو کمتر تسلیم کرنا۔

کان پڑی باندی۔ (لونڈری لپیڑی)۔ نہایت مطیع اور فرماں بردار
کینز۔

کان پھٹ جانا۔ کان پھوٹ جانا۔ کان پھوٹے جانا۔ (۱- محاورہ)
شہر وغل کے باعث پریشان ہونا۔

کان پھڑ پھڑانا۔ (۱- محاورہ) (۱) مستند ہونا۔ (۲) کسی کی آم کا اٹھانا
ہونا۔

کان پھوٹنا۔ (۱- محاورہ) بہل ہونا۔

کان پھوڑنا۔ (۱- محاورہ) شہر وغل سے پریشان کرنا۔

کان پیارے تو بالیاں جو رو پیاری تو سالیان۔ (۱- نفل) کسی چیز
کے ساتھ محبت ہونے کی وجہ سے اس کے متعلقات سے محبت
ہونے کے موقع پر بولتے ہیں۔

کان تک نہ ہلانا۔ (۱- محاورہ) عذر نہ کرنا۔ مان لینا۔

کان تلے کی چھوڑنا۔ (۱- محاورہ) (۱) بھیدگی بات کہنا۔ راز کی بات کہنا
(۲) چھپتی ہوئی کہنا۔ ناگوار بات کہنا۔

کان تھکانا۔ (۱- محاورہ) (۱) دھیان دینا۔ کان لگا کر سُنا۔ کسی بات
کو توجہ سے سُنا۔ (۲) محکم مان لینا۔

کان جھٹانا۔ (۱- محاورہ) کسی سمت آواز کا کانوں کو ناگوار اور
گراں گذرنا۔

کان چاٹ جانا۔ (۱- محاورہ) بہت بک بک کرنا۔ بہت بولنا۔

کان دبا کر چلا جانا۔ (۱- محاورہ) بے چون و چرا ایکے چپ چاپ
چلے جانا۔ دکھ دبا کر چلے جانا۔ سیدھا اور خاموش چلے جانا۔

کان دبا لینا۔ (۱- محاورہ) کوئی بات سن کر چپ ہو جانا۔ عزیزب
بن جانا۔

کان دبا تے ہوتے۔ (۱- صفت) چپ چاپ۔

کان دکھانا۔ کان کائیل نکھلانا۔ کان مینے سے کان صاف کرنا۔

کان دھر کر۔ (دھر کے) سُنا۔ کان دھرنا۔ (۱- محاورہ) غور سے
سُنا۔ دھیان دے کر سُنا۔ توجہ سے سُنا۔

کان رکھنا (لگانا)۔ (۱- محاورہ) (۱) توجہ دے کر سُنا (۲) خیال رکھنا۔

کان کڑے جاتے ہیں۔ کثرت شہر وغل یا داستان طویل کے سننے
کان پھٹے جاتے ہیں۔ { سے کانوں کا پریشان ہو جانا۔
کان پھوٹے جاتے ہیں۔

کان کھاڑنا۔ اینٹھنا (اینٹھنا) کھینچنا۔ مروٹنا۔ (۱- محاورہ) (۱) سزا
دینا۔ ادب دینا۔ گوشائی کرنا۔ ڈھکھانا یا باز آنا کسی کام کے نہ کرنے
کا عہد کرنا یا ستار۔ طنزورہ یا سازش کی کھوٹی مروٹنا۔

کان اُونچے (کھڑے) کرنا۔ (۱- محاورہ) چونکنا ہونا۔ ہوشیار ہونا۔ بدکنا۔
کان بال۔ بندوں کی ایک قسم جن میں بچے کے بال منڈوانے اور کان
چھیدوانے جاتے ہیں۔

کان بچنا۔ (۱- مذ) (۱) کان میں ہر وقت آواز آنا یا کسی کے بغیر بیکارے
اور بے بلائے بول اٹھنا۔

کان پھینا۔ (۱- محاورہ) شرارت کے لیے گھوڑے کا اپنے کانوں کو
چھڑھڑانا۔

کان بد مزہ ہونا۔ (۱- محاورہ) سنانا ناگوار ہونا۔

کان بند کر لینا (کرنا)۔ (۱- محاورہ) کان میں روٹی رکھ لینا یا انگلی دے
لینا یا بے توجہی کرنا یعنی آن سنی کرنا۔

کان بندھنا۔ (۱- محاورہ) کان میں حید ہونا۔ سوراخ ہونا۔

کان بندھوانا۔ (۱- محاورہ) کان میں چھید کرنا۔ کان چھیدنا۔

کان بہرا کرنا۔ (۱- محاورہ) جان بوجھ کر اپنے آپ کو بہرا بنانا۔ جان
بوجھ کر بات نہ سُنا۔

کان بھر جانا۔ (۱- محاورہ) باتوں سے اکتا جانا۔

کان بھرنے لیا۔ (۱- محاورہ) کی طرف بات سن کر اس پر یقین کر لینا۔ کانوں
میں بسا لینا۔

کان بھرنا۔ (۱- محاورہ) (۱) فیہت کرنا۔ چٹلی کھانا۔ لگائی بھائی کرنا۔
(۲) بظن کرنا (۳) دوسرے کے دل میں کسی کی طرف سے مل
ڈالنا۔

کان بہرے ہونا۔ (۱- محاورہ) توجہ سماعت جاتی رہنا۔ غل یا بک بک
ناگوار ہونے کی جگہ کو کہتے ہیں۔

کان بہنا۔ (۱- محاورہ) کان سے پیپ جاری ہونا۔

کان پرجھول نہ چلنا۔ کان پرجھول نہ رہنا۔ (۱- محاورہ)
(رکنا) (۱) کہنا نہ مانا۔ (۲) بے پروائی کرنا (۳) ڈھٹائی کرنا (۴) بالکل
بے خبر ہونا (۵) کسی بات کے سُنے کا اثر نہ ہونا۔

کان پر سے گولی نکل جانا۔ (۱- محاورہ) کسی صدمے یا آفت سے
بال بال بچ جانا۔

کان (کانوں) پر ہاتھ دھرنا (رکھنا)۔ (۱- محاورہ) (۱) صاف نکھار
کرنا۔ لاطی کا اٹھا کرنا۔ (۲) نگر جانا۔ کہہ کر پھر جانا۔

کان پڑنا۔ (۱- محاورہ) سُنے میں آنا۔ سُنانی دینا۔

کان پڑی آواز (بات) سُنانی نہ دینا۔ (۱- محاورہ) (۱) شہر وغل
کے باعث بات سمجھ میں نہ آنا (۲) نہایت شہر وغل ہونا۔

کان سے سننا۔ (۱- محاورہ) توجہ سے سننا۔
 کان سے نکلنا۔ (۱- محاورہ) رکنایت سنی ہوئی بات بھول جانا۔
 کان کا پردہ۔ کان کے اندر کی باریک شورخ دار چھٹی جو نہایت باریک اور نازک ہوتی ہے۔
 کان کا ٹٹنا۔ (۱- محاورہ) کان نرانا (۲) مات کرنا۔ بڑھ جانا۔ سبقت لے جانا۔ فریقت رکھنا (۳) دھوکہ دینا۔ فریب دینا۔
 کان (دکانوں) کا کچا۔ (۱- صفت) دھنسن جو بے سوچے سمجھے ہر ایک بات پر اعتبار کر لے۔ ضعیف الاعتقاد۔
 کان کا میل۔ (۱- مذ) وہ غلاظت اور کثافت جو کان کے اندر جمع ہو جاتی ہے۔
 کان کترنا۔ (کنایت) ایسا ہوشیار ہونا جو دوسرے کو عاجز اور پست کر دے (۲) کسی کام میں اُستادِ کامل ہونے کی جگہ بولتے ہیں۔
 (دیکھیے کان کاٹنا)
 کان کرنا۔ (۱- محاورہ) غور سے سننا۔ توجہ سے سننا۔
 کان کھولنا۔ کان میں سے میل نکلنے والا آر۔
 کان کھانا۔ کان کھا لینا۔ (۱- محاورہ) بکواس سے دماغ پریشان کرنا۔ ستانا۔ دق کرنا۔ شور وغل کرنا۔ تکلیف دینا۔
 کان کھینا کی فرصت نہیں۔ (۱- محاورہ) بالکل فرصت نہیں۔
 فرنا فراغت نہیں۔
 کان کھڑے رکھنا۔ (۱- محاورہ) ہوشیار رہنا۔ چوکس رہنا۔
 کان کھڑے کرنا۔ (۱- محاورہ) کان اُٹھکے کرنا۔ چوکنا ہونا۔ ہوشیار ہونا۔ بدگنا۔
 کان کھل جانا (کھلنا)۔ (۱- محاورہ) چوکنا ہو جانا۔ عبرت ہونا۔ اپنی غلطی سے آگاہ ہونا۔
 کان کھلنا۔ (۱- محاورہ) مرکب، منصف، ہمزنا۔ ہوشیار ہونا
 کان کھلے رکھنا۔ (۱- محاورہ) ہوشیار اور چوکنا رہنا۔
 کان کھول دینا۔ (۱- محاورہ) جتا دینا۔ آگاہ کر دینا۔ ہوشیار کر دینا۔
 خیر دار کر دینا۔
 کان کھول کے۔ (۱- تابع فعل) غفلت ڈور کر کے۔ ہوشیار کر کے۔
 کان کھولنا۔ (۱- محاورہ) کسی بات کے سننے کے لیے کانوں کا متوجہ کرنا۔ (۲) خبر دار کرنا۔ ہوشیار کرنا۔ نصیحت کرنا۔
 کان کے پروے پھٹنا۔ (۱- محاورہ) شور وغل کی وجہ سے کانوں کو اس قدر صدمہ پہنچنا کہ سماعت میں فرق آجائے۔
 کان کے کیڑے کھا جانا۔ (۱- محاورہ) کنایتاً بکواس۔
 بہت زیادہ باتیں کرنا۔
 کان کٹک ہونا۔ (۱- محاورہ) کان بہرا ہونا۔ کان کا بھن بھن کرنا۔

کان گنکار ہیں۔ (۱- محاورہ) میں نے صرف سنا ہے۔ جھوٹ سچ کا ذمہ دار نہیں
 کان لگا کر سننا۔ (۱- محاورہ) توجہ سے سننا۔
 کان لگانا۔ (۱- محاورہ) دھیان لگا کر سننا (۲) چھپ کر سننا۔
 کان لگنا۔ (۱- محاورہ) کان تک جانا۔ (۲) یار بننا۔ سہ پڑھنا۔
 (۳) کان پھوسی کرنا۔ سرگوشی کرنا۔ (۴) خیال ہونا۔ توجہ ہونا۔
 کان لگے رہنا۔ (۱- محاورہ) سننے کے لیے متوجہ رہنا۔
 کان لگے ہونا۔ (۱- محاورہ) دھیان لگنا۔ توجہ ہونا۔
 کان لینا۔ (۱- محاورہ) گوشمالی کرنا۔ کان ایٹھنا۔
 کان مانوس ہونا۔ (۱- محاورہ) کان آشنا ہونا۔ سنا ہوا ہونا۔
 کان مروڑنا (ملنا)۔ (۱- محاورہ) کان کھیننا۔ گوشمالی کرنا (۲) ڈرانا۔ سزا دینا۔ (۳) ستار یا سارنگی کی کھنٹی کسا۔ (۴) کنایتاً عاجز ہونے اور قائل ہونے کا اعتراض۔
 کان مھلیا۔ (۱- صفت) کان کا میل صاف کرنے والا۔
 کان (دکانوں) میں اٹھکی دینا۔ کان (دکانوں) میں اٹھکی رکھنا۔ (۱- محاورہ) کسی کی آواز نہ سننے کے لیے کان بند کر لینا۔ ڈراؤنی آواز سے بچنے کے لیے کانوں میں اٹھکیاں ڈال لینا۔ عموماً جمع بولتے ہیں۔
 کان میں بات ڈال دینا۔ (۱- محاورہ) آگاہ کر دینا۔ سمجھا دینا۔
 کان میں بات کہنا (کرنا)۔ (۱- محاورہ) کوئی شخص یا راز کی بات کرنا۔ سرگوشی کرنا۔
 کان میں بات دہلے (مارنا)۔ (۱- محاورہ) بات سن کر مال جانا۔ سنی آن سنی کر جانا۔
 کان میں پھٹک پڑنا۔ (۱- محاورہ) افواہ سنائی دینا۔
 کان میں پارہ بھرننا۔ (۱- محاورہ) گونگا بھرا کر دینا۔
 کان میں پڑنا۔ (۱- محاورہ) سننے میں آنا۔ گوش زد ہونا۔ اگاہی ہونا۔
 کان میں پھونکنا۔ (۱- محاورہ) کان میں کہنا۔ (۲) بدگونی کرنا۔ (۳) بدگمان کرنا۔ (۴) کسی کی تعریف کر کے اُسے پھلانا۔ بھکا دینا۔
 وہ کسی کے متعلق کوئی بری بات دوسرے کے دل میں بٹھا دینا۔
 کان میں تیل ڈال لینا۔ (۱- محاورہ) اپنے آپ کو بے خبر اور بہرا بنا لینا۔ (۲) خاموشی اختیار کر لینا۔ پچھ نہ سننا۔ بے پروا بن جانا۔
 کان میں چھٹی کھڑی ڈالنا۔ (۱- محاورہ) غلام بنانا۔ غلام ہونے کی نشانی کان میں ڈالنا۔
 کان میں ڈال دینا۔ (۱- محاورہ) سنا دینا۔ کہہ دینا۔
 آگاہ کر دینا۔ گوش گزار کر دینا۔
 کان میں ڈھول بجانا۔ (۱- محاورہ) کان کے پاس چلانا۔ بہت

زور سے کہتا۔

کان میں رکھنا۔ (۱۔ محاورہ) یاد رکھنا۔ خیالی رکھنا۔

کان میں رُونی دینا۔ (۱۔ محاورہ) محض بے خبر۔ غافل۔ بے سُدھ اور بے پرواہ بنانا۔

کان میں کھٹکنا۔ (۱۔ محاورہ) کانوں کو بُرا لگنا۔ ناگوار معلوم ہونا۔ کان میں کہنا۔ کان میں کہہ دینا۔ (۱۔ محاورہ) بچکے سے کہنا۔ پریشیدہ یا خبیثہ طور سے کہہ دینا۔

کان نہ چھڑکانا۔ چھڑ پھڑانا۔ بھلانا۔ (۱۔ محاورہ) جوں نہ کرنا۔ چُپ ہو جانا۔ (۲۔ محاورہ) کامور کا سبھ جانا۔ (۳۔ شرارت نہ کرنا۔

کان نہ دھرنا۔ رکھنا۔ (۱۔ محاورہ) توجہ نہ رہنا۔ غور نہ کرنا۔ متوجہ ہو کر نہ ٹھننا۔ بے پرواہی سے ٹھننا۔

کان ہونا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) چار پائی یا کپڑے میں ٹیڑھ ہونا۔ (۲) نصیبت حاصل ہونا۔ شجر دار ہو جانا۔ (۳) اطلاع ہو جانا۔ امتحان ہو جانا۔ (۴) خسیال ہو جانا۔ دھیان ہو جانا۔ (۵) عقل آنا۔ ہوش آنا۔

کانوں پر ہاتھ دھرنا۔ (۱۔ محاورہ) صاف اٹکار کرنا۔ (۲) بکھر جانا۔ نفرت کرنا۔ (۳) پناہ مانگنا۔

کانوں پڑی آواز۔ (۱۔ رودتہ) وہ بات جو کہی سنی ہو اور یاد ہو۔

کانوں تک رہنا۔ (۱۔ محاورہ) بات سن کر کسی سے نہ کہنا۔

کانوں کان خبر نہ ہونا۔ (۱۔ مثل) اس طرح کوئی بات کہنا جس کی دوسرے کو مطلق خبر نہ ہو۔ بالکل خبر نہ ہونا۔

کانوں میں لہس پڑنا۔ (۱۔ محاورہ) کانوں کا ریلی یا میزلی آواز سے حفا اٹھانا۔ ٹٹف حاصل کرنا۔

کان۔ (۱۔ مؤنث) معدن۔ وہ جگہ جہاں سے کھود کر دھات یا جواہرات وغیرہ نکالتے ہیں۔ (۲) بیخ۔ برحشہ۔

کان بچھو سنا۔ (۱۔ صفت) فیاض۔ بخیر۔

کان کن۔ (۱۔ صفت) کان کھودنے والا۔

کان کھنی۔ (۱۔ مؤنث) کان کھودنا۔ کان کھودنے کا عمل۔

کان خلاصت۔ (۱۔ صفت) وہ معشوق جو سانولا سلونا ہو۔ خوبصورت۔

کانا۔ (۱۔ کانا) [اُر] بمعنی کان میں مرکبات کے شروع میں استعمال ہوتا ہے۔ جیسے کانا پھوسی۔

کانا بانی۔ (۱۔ مؤنث) کان میں بات کہنا۔ کسی بچے کو ہنسانا مقصود ہو تو اس کے کان میں کانا بانی، کانا بانی کر کہتے ہیں۔ اور

کر پر زیادہ زور دیتے ہیں۔

کانا پھوسی۔ مگر کوشی۔ بچکے بچکے کان میں بات کہنا۔ کھس پھس

کانا گوشہ۔ (۱) کانا پھوسی۔ (۲) گوشہ۔

کانا۔ (۱۔ کانا) [ھ۔ صفت] (۱) مذ [یک] آکھ والا۔ (۲) احمد العین۔

یک چشم۔ کانٹا۔ (۲) داعی پیل۔ (۳) ٹیڑھا تڑچھا۔

کانا پردہ۔ (۱۔ مذ) ناقص پردہ۔ بلائے نام پردہ۔

کانا قشور بھونقہ۔ (۱۔ مثل) عیب میں عیب۔ شراب و تباہ کلبے بڑے اور بے میل سامان۔ (۲) نہایت مفلس۔

کانا کچھو۔ (۱۔ مذ) ایک پہاڑی ترکاری جو موسم برسات میں از خود پیدا ہوتی ہے۔

کانے کو منہ پر کانا نہیں کہتے۔ (۱۔ محاورہ) عیب والے کا عیب منہ پر نہیں کہتے۔

کانپ۔ (۱۔ مؤنث) [مٹ] (۱) پتنگ یا کتے کی خمدار اور کچھار تلی نمی جو فوس نما لگائی جاتی ہے۔ (۲) چھتری کے تار جن پر کپڑا منڈھا ہوتا ہے۔ (۳) سوکری یا گھٹی کا اگلا دانٹ۔ (۴) کانپنا کا امر۔

کانپ اٹھنا۔ (جہانا)۔ (۱۔ محاورہ) خوف سے لرز جانا۔ خزا جانا۔ بدن میں کپکپی پیدا ہو جانا۔ (۲) کانپ کانپ اٹھنا بھی متصل ہے)

کانپ جانا۔ (۱۔ محاورہ) خوف سے خزا جانا۔ (۲) جاڑے سے کپکپی چھوٹ جانا۔

کانپ چھٹنا۔ (۱۔ محاورہ) کپکپی آنا۔ لرزہ طاری ہونا۔ (۲) کانپنا۔ (۱۔ محاورہ) [ھ۔ صفت] لرزنا۔ خزا جانا۔ خوف کھانا۔ ڈر جانا۔

کانپنی۔ (۱۔ کانپ) [نی] (۱) [مٹ] [کپکپی]۔ خزا جانا۔ لرزش۔ کانپنا۔ (۱۔ کان) [نا] [ھ۔ ۱۔ مذ] (۱) خار۔ سول۔ گند۔ (۲) ترازو۔

(۳) ترازو کے دستے کی سوئی۔ (۴) مچھلی پکڑنے کا خمیہہ اور نوکدار کانا۔ (۵) کنویں وغیرہ میں گرے ہوئے ڈول نکلنے کا اظہار۔ (۶) بچے کی شکل کی ایک آہنی یا برنجی چیز جس سے گوشت وغیرہ کھا جاتا ہے۔ (۷) مچھلی کا خار (۸) آٹھ۔ (۹) وہ کل جس کے کھینچنے سے ریل گاڑی دوسری پٹری پر چل جاتی ہے۔

(۱۰) کھب۔ (۱۱) پرندوں کا ایک مہک مرض جس میں دم کے پاس چھتسی نکل آتی ہے۔ (۱۲) عیش۔ کھٹکا۔ (۱۳) وہ جو بلی پتیر جس سے زمیندار لوگ گھاس وغیرہ اکھٹی کرتے ہیں۔ (۱۴) شراب کا مہک

نشہ۔ نہایت تیز اور تند شراب۔ (۱۵) ٹھنڈے یا گھری کی سوئی۔ (۱۶) ملو حساب میں جمع۔ ضرب۔ تقسیم۔ تفریق کا نشان۔ (۱۷) کاکھردا پن۔ (۱۸) قوم کاتار۔ (۱۹) روک۔ (۲۰) کھٹاؤ۔ (۲۱) ڈشمن۔ (۲۲) ہمیز جس سے گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہیں۔ (۲۳) سیہ کا کانا۔ (۲۴) جانوروں کے پاؤں کا خار۔ [صفت] (۲۵) نہایت ڈبلا۔ لاغر۔ (۲۶) نہایت ناگوار طبع۔ (۲۷) ایڑا پہچانے والا۔ فتنہ پرداز۔

کانٹا بدلنا۔ (۱۔ محاورہ) ریل کے کانٹے کا ایک طرف سے دوسری طرف کرنا۔ (۲) رُخ پھیرنا

کانٹا پڑنا۔ (۱۔ محاورہ) پرندوں میں کانٹے کی بیماری کا ہونا (۲) پیاس کے باعث زبان کاکھردا ہونا۔ کنویں سے ڈول وغیرہ نکالنے کے لیے کانٹا ڈالا جانا۔

کانٹا چھوٹنا۔ (۱۔ محاورہ) [کانٹا] [عیش دینا۔ تکلیف دینا۔

کانٹا چھوٹنا۔ (۱۔ محاورہ) [کانٹا] [عیش دینا۔ تکلیف دینا۔

کانٹا چھوٹنا۔ (۱۔ محاورہ) [کانٹا] [عیش دینا۔ تکلیف دینا۔

کانٹا چھوٹنا۔ (۱۔ محاورہ) [کانٹا] [عیش دینا۔ تکلیف دینا۔

کانٹا چھوٹنا۔ (۱۔ محاورہ) [کانٹا] [عیش دینا۔ تکلیف دینا۔

کانٹا چھوٹنا۔ (۱۔ محاورہ) [کانٹا] [عیش دینا۔ تکلیف دینا۔

کانشاسا - (۱- صفت) خاد کی طرح - (۲- ڈبلا
 کانشاسا آنکھوں میں کھٹکنا - (۱- محاورہ) بڑا لگنا - ناگوار گزرنا -
 محسوس و ملاحظہ ہونا -
 کانشاسا کھٹکتا - (۱- محاورہ) نہایت ناگوار گزرنا - بڑا لگنا - ناگوار
 خاطر ہونا -
 کانشاسا بیکل جانا - (۱- محاورہ) کسی دکھ یا مصیبت یا سختی سے ہائی
 پانا - آرام پانا - چین آجانا -
 کانشاسا جو جانا - (۱- محاورہ) بہت لاغر اور کمزور ہو جانا -
 کانشا کھانا - (۱- محاورہ) پھیلنے کا کانسٹے میں پھینسا -
 کانشا لگنا - (۱) کانشا چھینا - (۲) پرندوں کو کانسٹے کا مرض لاحق ہونا -
 (۳) ٹھیک نشہ ہونا - (۴) ناگوار معلوم ہونا -
 کانشا ماننا - (۱- محاورہ) (۲) پرمانا (۳) لڑتے وقت ایک مرع کا
 دوسرے مرع کو لات ماننا - (۴) کم تو لیا -
 کانشا نکالنا - (۱- محاورہ) تکلیف یا مصیبت سے بچانا - غلش مٹانا -
 کھٹکا ڈور کرنا -
 کانشا ٹکنا - (۱- محاورہ) (۲) غلش ڈور ہونا - تکلیف ڈور ہونا - ریج
 سے نجات پانا - (۳) پرندوں کو کانسٹے کا مرض لاحق ہونا -
 کانشا نہ لگے - دکھ نہ دیا - کوئی تکلیف نہ پہنچے -
 کانشا جو جانا - (۱- محاورہ) سوکھ کے لاغر ہو جانا - بہت ڈبلا ہو جانا -
 کانسٹوں بھرا - (۱- صفت) بہت تکلیف رساں -
 کانسٹوں پر بس کرنا - (۱- محاورہ) (کنایتہ) آ کمال ایذا برداشت
 کرنا - بہت تکلیف اٹھانا -
 کانسٹوں پر پھینچنا - کانسٹوں پر کھیٹنا - (۱- محاورہ) (۲) سزا دینا -
 (۳) شرمندہ کرنا - (۴) نہایت تکلیف دینا - (۵) اذہد ستانا -
 آزار پہنچانا -
 کانسٹوں پر ٹوٹنا - (۱- محاورہ) بے قرار رہنا - (۲) آتش
 رشک و حسد میں جلا - (۳) بڑی مصیبت اٹھانا -
 کانسٹوں میں اُلجھنا - (۱- محاورہ) (کنایتہ) جھگڑے میں پھینسا -
 کانسٹوں میں نکل کر بیکنا - کانسٹے میں ٹکنا - (۱- محاورہ) نہایت
 گراں بیکنا - کسی چیز کی کمال قدر ہونا - سونے چاندی کے
 بھاؤ بیکنا -
 کانسٹوں میں گھرنا - (۱- محاورہ) مصیبت میں پڑنا - آتنگ میں
 مبتلا ہونا -
 کانسٹے بچھانا - (۱- محاورہ) ایذا رسانی کا کام کرنا -
 کانسٹے بونا - (۱- محاورہ) اپنے یا کسی کے حق میں بولنا کرنا -
 کانسٹے بونے بولنے کے تو آدم کہاں سے ہوں - (۱- عیش)
 بدی کر کے بیک کی امید رکھنا ساقاقت ہے -
 کانسٹے بوئے ہونا - (۱- محاورہ) تکلیف دہ ہونا - ایذا رساں
 ہونا -

کانٹے پر کی اول بخین پھیری (۱- مٹ) بیکار چیز - ناپائیدار چیز -
 کانٹے پڑنا - (۱- محاورہ) پیاس کے مارے زبان یا عین خشک ہو
 جانا -
 کانٹے کی تول - (۱- مٹ) بالکل ٹھیک - ذکر نہ زیادہ -
 کانٹے کی طرح سوکھنا - (۱- محاورہ) بہت ڈبلا پتلا ہو جانا -
 کانٹے کی طرح نظر میں کھٹکنا - (۱- محاورہ) کمال ناگوار گزرنا -
 کسی چیز کا دیکھنا ناگوار ہونا -
 کانٹے میں ٹکنا - (۱- محاورہ) بہت بیش قیمت ہونا - مہنگا ہونا -
 کانٹے میں لگانا - (۱- محاورہ) پھیل پکڑنے کے لیے کانٹے میں
 چارہ لگانا -
 کانٹی - (کان - ٹی) (۱- مٹ) (۲) رونی کا کوڑا - وہ نکمی رونی
 جو دھتے میں نہ آسکے - (۳) چھوٹا ٹھک - آنکھوں - (۴) بیڑی - جھلان
 (۵) تولنے کا چھوٹا کانٹا - (۶) وہ لنگر جو لڑکے ڈور میں باندھ کر
 تڑپا لڑاتے ہیں - (۷) مجرم کے پاؤں میں ڈالنے کی بیڑی -
 کانٹی کھانا - (۱- محاورہ) قید کا کٹنا - جیل خانے جانا - سزا یافتہ ہونا -
 داعی ہونا -
 کاجی - (کان - جی) (۱- مٹ) ایک قسم کا کھٹا پانی جس میں رائی،
 زیرہ، نمک وغیرہ اجار کی طرح ڈالتے ہیں - (۲) چاولوں کے
 بیج - مانڈی - (۳) گاجروں کے اجار کا پانی -
 کاجی اوس - (کان - جی - ہا - اوس) (۱) قید خانے کا
 مکان (۲) حوالات - بنگلانی - (۳) وہ سرکاری مکان جہاں لاوارث
 مریض بھیج دیے جاتے ہیں -
 کاجی - (۱- مٹ) (۲) شبیہ - ایک قسم کا سخت چمکدار مادہ جو
 ریت اور کھار یعنی سچی کے ذریعے سے بنایا جاتا ہے - (۳) توتھ
 ایک بیماری جس میں پاجانہ کرتے وقت مقعد کا گوشت باہر نکل
 آتا ہے -
 کاجی نکال دینا - (۱- محاورہ) (کنایتہ) بہت مارنا - عاجز کرنا - کسی
 کو نقصان پہنچانا - مار مار کے ناس کر دینا -
 کاجی ٹکنا - (۱- محاورہ) (۲) مقعد کے گوشت کا نفاہت و صنعت
 کے باعث نکل آنا - (۳) (کنایتہ) خسارہ اٹھانا - (۴) عاجز ہونا -
 صدمہ برداشت کرنا -
 کاجی - (کان - جی) (۱) مٹ [شادی کی ایک رسم -
 جو - (۲) اٹلائی - ٹوٹی - گانڈو -
 کاجی - (کان - جی) (۱) مٹ [شادی کی ایک رسم -
 کاند - (۱- مٹ) دیوار - پشتہ -
 کاندہ - (۱- مٹ) نیشکر - (۲) [مٹ] پیاز - کسی پر دوسے کی گانڈہ دار
 کاندو - (کان - ڈو) (۱- مٹ) نیشکر - چینی - (۲) بھرا بھرا
 کاندھا - (کان - دھا) (۱- مٹ) [مٹ] کاندھا - شانہ - دوش - کندھا -

کانسٹیٹیوشن (Constitution) (کانس۔ ٹی۔ ٹیوشن) (انگ۔ ۱۔ مذ) [ساخت۔ بناوٹ۔ وجود۔ (۲) قوانین۔ دستور۔ آئین۔ (۳) نظام۔ اصول۔

کانسٹم۔ (کان۔ سنہ) [اُرد۔ ۱۔ مذ] [صبح (فارسی) کاسہ۔ پیالہ۔ بھیک۔ کاٹھیکہ۔

کانسی۔ (کان۔ سہی) [ھ۔ ۱۔ موٹھ] [ایک قسم کی دھات جو تانبے اور رانگ کی آمیزش سے تیار ہوتی ہے۔

کانشس۔ (کان۔ شنس) [انگ۔ ۱۔ مذ] [انسانی ضمیر۔ وجدان سلیم۔ وہ انسانی قوت جو انسان کو بھلائی کی طرف متوجہ کرے۔

کانفرنس۔ (Conference) (کان۔ فن۔ رس) [انگ۔ ۱۔ مٹھ] [مجلس شوریٰ۔ مشورہ کی مجلس۔ مشاورت۔

کانفیڈنشل۔ (Confidential) (کان۔ فی۔ ڈن۔ ٹشل) [انگ۔ صفت] [رازداری کا خفیہ۔ بعینہ راز۔ پرائیویٹ۔

کانگریس۔ (کانگ۔ ری) [ھ۔ ۱۔ مذ] [کلمہ۔ ٹیبل۔ مشعل کی سنی (تی) کانگھ۔ (۵۔ ۱۔ موٹھ) [۱۶۔ نبل (۲) گناہ۔ پہلو۔

کانگھنا۔ (کانگھ۔ نا) [ھ۔ مٹھ] [گلاصاف کرنے کے لیے آواز نکالنا۔ (۲) کراہنا۔ آپس بھڑنا۔

کانگریس۔ (Congress) (کانگ۔ رس) [انگ۔ ۱۔ مٹھ] [مجلس۔ سبھا (دستندوں کی) (۲) انجمن۔ پارٹی۔ جماعت۔

کانگریڈ۔ (کانگ۔ ریڈ) [ق۔ ۱۔ مذ] [تربوڑ

کانگریٹی۔ (کانگ۔ ٹری) [ھ۔ ۱۔ موٹھ] [مسی کی انگلیٹی جس کے اوپر تیلیوں کا خلاف چڑھا ہوتا ہے بختیروں میں اس کا استعمال عام ہے۔

کانوڈ۔ (ھ۔ ۱۔ مذ) [آنکھ کی ایک بیماری جس میں زردی چھا جاتی ہے۔ (۲) [مٹھ] [ایک کڑی جس کے دونوں کناروں پر نوکریاں رکھ کر ان میں چیزیں رکھ لیتے ہیں۔ بھنگی۔

کانوڈا۔ (کان۔ و۔ لا) [ھ۔ صفت] [حواس باختہ۔ بے اوسان۔ بدحواس۔ گھبراہٹا ہوا۔

کانوڈن۔ (کان۔ نوڈن) [ق۔ ۱۔ مذ] [انگلیٹی (۲) آگ ڈالنے کا پیلہ

کانووکیشن۔ (Convocation) (کان۔ وو۔ کے۔ شن) [انگ۔ ۱۔ مذ] [جلسہ تقسیم اسناد۔ یونیورسٹی۔

کانونینٹ۔ (Convent) (کان۔ وینٹ) [انگ۔ ۱۔ مذ] [عیسائی اہل خانقاہ۔ عیسائی خانقاہ۔ (۲) عیسائی مدرسہ۔

کانوٹی۔ (ھ۔ صفت) [۱۔ موٹھ] [کاناکہ تانبہ۔ ایک آنکھ والی (د) معدن کی چیز۔ معدنی۔ کان سے منسوب۔ (۳) کہانی (تی)

کانوڈ۔ (ق۔ ۱۔ مٹھ) [۱۱۔ کھوڈنا (۲) تلاش۔ تفتیش (۳) استخنان۔

کاندھا بدلتا۔ (۱۔ محاورہ) ایک کندھے سے دوسرے کندھے پر کسی کا بوجھ لینا۔

کاندھا دینا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) جنازے کو کاندھا دینا۔ (۲) سہارا دینا۔

کاندھی دے جانا۔ [ھ۔ مٹھ] [۱۱] [ہانہ کرنا۔ ٹال جانا۔ پہلو تہی کرنا۔ (۲) گھوڑے کا پیٹھ کو جھنکا دے کر سوار کو گرانا دینا۔

کانڈ۔ (ھ۔ ۱۔ مذ) [کتاب کا باب۔ حصہ۔ فصل۔

کانڈرا۔ (کان۔ ڈرا) [ھ۔ ۱۔ مذ] [ایک قسم کی جڑ جو پیاز سے مشابہ ہوتی ہے۔

کانڈل۔ (کان۔ ڈن) [ھ۔ ۱۔ مذ] [رسوں کا ساگ۔

کانڈلی۔ (کانڈ۔ لی) [ھ۔ ۱۔ مٹھ] [خرفہ۔

کانڈسا۔ (کان۔ ڈسا) [ھ۔ ۱۔ مذ] [دیکھیے کانٹا (۲) ایک راگنی (۳) ایک قسم کا پتنگ۔

کانڈراگتی۔ (ھ۔ صفت) [نہایت شوخ اور شریہ۔

کانڈراگتے بھائے نہیں۔ کانڈرے بن سہائے نہیں۔

[۱۱۔ مٹھ] [ایک شخص سے نفرت بھی کرنا اور پھر اس کے بغیر صبر بھی نہ کر سنا۔

کانڈرے کی ایک رگ سوا ہوتی ہے۔ (۱۱۔ مٹھ) [کالے میں شرارت زیادہ ہوتی ہے۔

کانڈرے کے بیاہ کو سوسو جو کھوں۔ (۱۱۔ مٹھ) [عیب دار شے کے لیے ہر جگہ مشکلات پیش آتی ہیں۔

کانڈری۔ (کان۔ ڈری) [ھ۔ صفت] [۱۔ مٹھ] [کانڈرا کا موٹھ۔

کانڈری اپنا ٹینٹ نہ تھارے اوروں کی پٹی دیکھ بھالے۔ (۱۱۔ مٹھ) [عیب دار کو اپنا عیب تو خواہ کیسا ہی بڑا ہو، معلوم نہیں ہوتا۔ مگر دوسرے کا معمولی عیب بھی بڑا معلوم ہوتا ہے۔

کانڈری کو کون سولے کانڈری کا باوا۔ (۱۱۔ مٹھ) [اپنی بڑی چیز بھی اچھی معلوم ہوتی ہے۔

کانس۔ (کان۔ سن) [اُرد۔ ۱۔ مٹھ] [انگریزی لفظ کانس کا بگڑا ہوا۔ گنگنی۔ چیمبا۔

کانس۔ (ھ۔ ۱۔ مٹھ) [۱۱] [ایک قسم کی لمبی گھاس جو اکثر عیز مزروعہ زمین میں پیدا ہوتی ہے۔ (۲) جھگڑا مٹھا۔ تقیہ۔ (۳) چمک۔ سالش۔

کانس میں پڑنا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) دھوکہ کھانا۔ (۲) سوچ بچار میں گئے رہنا۔ غور و فکر میں محور ہونا۔ (۳) جان جو کھوں میں رہنا۔

کانس میں پھینسا۔ (۱۔ محاورہ) [مشکل میں پڑنا۔ مصیبت میں پھینسا۔

کانسا۔ (کان۔ سا) [ھ۔ ۱۔ مذ] [راجہ کا کھانا۔ خاصہ۔ (۲) ایک دھات۔ کانسی۔

کانسٹبل۔ (Constable) (کانس۔ ٹے۔ بِل) [انگ۔ ۱۔ مذ] [پولیس کا سپاہی۔

کس واسطے۔

کاہیدگی - (کاہی - ڈ - گئی) [فت - ۱۰ - مٹھ] لاغزی، ڈہلا پن۔
 کاہیدہ - (کاہ - ہی - ڈہ) [فت - صفت] گھٹا ہوا، ڈہلا - لاغز۔
 کاہچلن - (کاہ - چل - ن) [مد - ۱۰ - مذ] ایک دو اجر کسی درخت کی
 چھال ہوتی ہے۔ (۲) نلے کی طرح کا ایک پہاڑی اوڈا لڑکس
 پھل۔

کاہد - (کا - ہد - ع) [فت - صفت] مٹکار - فریبی۔

کاہن - (ع - صفت) ہونے والا - موجود۔

کاہنات - (کاہ - ا - نات) [ع - ۱ - موث] [۱۱] موجودات - دنیا (۲)
 حقیقت - حیثیت - (۳) سرمایہ - پونجی - (۴) خلیق اللہ۔

کاؤنٹ - (Count) (کو - نٹ) [انگ - ۱ - مذ] یورپ میں نواب
 کا لقب۔

کاؤنٹر - (Counter) - (کا - آ - ن) [نٹ - انگ - ۱ - مذ] کلک۔
 مکتوبہ - (روپیہ گنے کی میز یا تختہ دوکان وغیرہ میں)

کاؤن کاؤن - (کا - آؤن - کاؤن) [ھ - ۱ - مٹھ] [۱۱] کوڑے کی
 مسلسل آواز - (۲) لوگوں کا شور وغل۔

کاؤن کاؤن کرنا - (۱) محاورہ [۱۱] کوڑے کا کاہیں کاہیں کرنا - (۲) گول
 کا شور وغل کرنا - چلانا۔

کاٹی - (کاہ - اٹی) [ھ - ۱ - مٹھ] [۱۱] وہ سبزی جو اکثر بند پانی کے اُپر
 یا برسات میں چوڑے کی دیواروں وغیرہ پر جم جاتی ہے۔ ایک قسم
 کی پیپوندی - پانی کا مالا - (۲) گہرا سیاہی والی سبز رنگ۔
 کاٹی سب چھٹ جانا - (۱) محاورہ [۱۱] بادلوں کی طرح الگ الگ ہونا۔
 وقفہ تہہ بتر ہونا۔

کاٹی لگنا - (۱) محاورہ [۱۱] پانی یا کسی اور چیز پر سبزی جم جانا۔
 کاٹیاں - (کاہ - ایاں) [اڑ - صفت] [۱۱] نہایت چالاک - ہوشیار۔
 خواہش - تجربہ کار - (۲) فریبی - دغا باز - (۳) بخیل - بجزوس۔
 کاٹیاں پن - (۱) مذ [۱۱] عیاری - چالاک - مکاری بجزوسی۔

کاہیں کاہیں - (کاہ - ایں - کاہیں) [ھ - ۱ - مٹھ] [۱۱] دیکھیں کاؤن ڈل
 کاہیں کاہیں کرنا - کاہیں کاہیں مچانا - (۱) محاورہ [۱۱] غل شور کرنا۔
 کاہیا - (کاہ - یا) [ھ - ۱ - مٹھ] [جسم - تن - بدن] سریرہ (۲) ٹوک - پھینس۔
 (۳) اصلیت - ماہیت۔

کاہیا بڑی کہ مایا - (۱) مثل [۱۱] جان سے بہتر مال نہیں۔
 کاہیا چلپٹ - (۱) صفت [مد] [۱۱] قالب بدلنے والا - (۲) بھینس بدلنے
 والا - (۳) بہرہ رسید - (۴) وہ دو اجس سے بڑھنا جو ان ہو
 جائے۔

کاہیا کلپٹ دینا - (۱) محاورہ [۱۱] ہیئت بدل دینا۔
 کاہیا کلپٹا - (۱) محاورہ [۱۱] چولا بدلنا - قالب تبدیل کرنا - (۲) تباہ
 اختیار کرنا - (۳) دوسری جنوں میں آنا - (۴) روپ دھارنا۔
 (۵) جو بن پر آنا - ماہیت بدلنا۔

کاوا کاوا - (۱) کوشش (۲) تفتیش - (۳) زخم کو ناخن سے چھینا او
 کھانا۔

کاوا - (کا - وا) [۱۱] اڑ - ۱ - مذ [کوڑے کو اس طرح چکّہ دینا کہ اس
 کے قدموں کے نشانوں سے زمین پر ایک دائرہ پیدا ہو جائے۔
 چوگان۔

کاوا دینا - گھوڑے کو حلقہ باندھ کر چکّہ دینا۔

کاواک - (کا - واک) [فت - صفت] [۱۱] خالی - کھوکھلا [اڑ] [۱۱] بیڈل۔

کاوش - (کا - وشن) [فت - ۱ - مٹھ] [۱۱] کھودنا - کھوج لگانا - (۲)
 خدش - (۳) کیرید - تلاش - تجسس - جستجو [اڑ] [۱۱] بیر - دشمنی۔
 حسد - جن۔

کاؤن - (کا - وان) [ق - ۱ - موث] [گشت -

کاؤن گز - گشت کرنے والا۔

کاؤہ - (کا - وہ) [فت - ۱ - مذ] ایک آہنگ - جس نے فریہوں کو ڈھونڈ
 نکالا اور اسے شغاک پر چڑھا کر ملک دلویا۔

کاؤٹی - (کا - وی) [فت - ۱ - مٹھ] [۱۱] کھودنا - (۲) تلاش کرنا - تفتیش
 کرنا۔ (مرکبات کے آخر میں استعمال ہوتا ہے)

کاؤہ - (فت - ۱ - مٹھ) [کئی ہوتی سوکھی گھاس۔

کاؤہ ٹہا - (فت - ۱ - مٹھ) [یک قسم کا زرد رنگ جس کی یہ خاصیت ہے
 کہ اگر اسے کپڑے یا چمڑے پر رگڑو گھاس کے تیلے کے سامنے
 لائیں تو وہ مقناطیس کی طرح اسے اٹھاتا ہے۔

کاہ کشاں - (کاہ کشاں) [فت - ۱ - مٹھ] [بہت سے چھوٹے چھوٹے
 ستاروں کی قطار جو اندھیری رات میں آسمان پر بڑھ کر کی مانند
 نظر آتی ہے۔

کاہ گل - (کاہ - گل) [فت - ۱ - مٹھ] [پستر کرنے کی جھٹلی ہوتی مٹی۔
 کاہش - (کاہ - ش) [فت - ۱ - مٹھ] [۱۱] زوال - کمی - گھاؤ - آثار - تنزل۔
 (۲) لاغزی - ڈہلا پن۔

کاہش اٹھانا - (۱) محاورہ [۱۱] تکلیف برداشت کرنا۔

کاہش جہاں - (فت - ۱ - مٹھ) [وہ صدر جہان پر ہو۔
 کاہل - (کاہ - ہل) [ع - صفت] [سست - کام چور - جمول - آرام بہ۔
 کاہلا - (کاہ - لا) [اڑ - صفت] [سست - تھکا ہوا - ہ - دین] تیر۔
 جلد باز۔

کاہلی - (کاہ - لی) [فت - ۱ - مٹھ] [سستی - آرام طلبی - آگسی۔
 کاہین - (کاہ - پن) [ع - ۱ - مذ] جنوں سے دریافت کر کے غیب
 کی خبریں بتلنے والا - جمع: کہنہ۔

کاہنہ - (کاہ - ہ - ن) [ع - ۱ - مٹھ] [کاہین کی موث۔
 کاہنو - (کاہ - ہنو) [فت - ۱ - مذ] ایک قسم کا ساگ اور اس کا تخم۔
 کاہنی - (کاہ - نی) [اڑ - ۱ - مذ] [۱۱] ہلکا سبز رنگ مائل بہ سیاہی۔
 (۲) کیس جو ایک قسم کی پھکڑی ہے - بعض کاہنی کہتے ہیں۔
 کاہنہ سے - کاہنہ کو - (۳) کلمہ استفہام کیوں - کس لیے۔

نیلا پیلا ہوجانا (۷۸) ناگوار گزرنا۔ (۸۰) آگ جلا ہونا۔ (۹) طیش میں آجانا۔ (۱۰) حسد یا رشک سے جلنا۔

کباب - کیا بہرہ - رکت - بانہ - کت - بانہ (فت ۱-۱۰) مذ [سیاہ مرغ سے مشابہ ایک قسم کے گول گول بیج جو بطور دوا استعمال ہوتے ہیں۔

کباب چینی - کبابہ - سیٹل چینی - سرد چینی۔
کیابی - رکت - باہنی (فت ۱-۱۰) مذ [کباب بنا کر بیچنے والا۔ کباب فروش۔

کبادہ - رکت - بادہ (فت ۱-۱۰) مذ [نرم کمان۔ مشق کرنے کی کمزور کمان۔

کبار - رکت - باز (رع ۱-۱۰) مذ [کبیر کی جمع۔ بڑے آدمی۔ بزرگ۔ کجاڑ - رکت - باڑ (رع ۱-۱۰) مذ [کاٹھ - کباڑ - ٹوٹا پھوٹا اسباب۔

کجاڑ خانہ - رکت - باڑ (رع ۱-۱۰) مذ [ٹوٹے پھوٹے سامان کا گمراہ یا ڈوکان۔ کجاڑی - رکت - باڑ (رع ۱-۱۰) مذ [ٹوٹا پھوٹا اسباب بیچنے والا۔

کجاڑی - رکت - باڑ (رع ۱-۱۰) مذ [ٹوٹا پھوٹا اسباب بیچنے والا۔ کجاڑی - رکت - باڑ (رع ۱-۱۰) مذ [ٹوٹا پھوٹا اسباب بیچنے والا۔

کجبت - رکت - بہت (رع ۱-۱۰) مذ [کجبت - ایک قسم کی ہندی نظم۔ کججا - رکت - جا (فت ۱-۱۰) صفت [کجاڑ۔

کجبتہ - رکت - بہت (رع ۱-۱۰) مذ [کجبتہ - ایک قسم کی ہندی نظم۔ کجبتہ - رکت - بہت (رع ۱-۱۰) مذ [کجبتہ - ایک قسم کی ہندی نظم۔

کجبتہ - رکت - بہت (رع ۱-۱۰) مذ [کجبتہ - ایک قسم کی ہندی نظم۔ کجبتہ - رکت - بہت (رع ۱-۱۰) مذ [کجبتہ - ایک قسم کی ہندی نظم۔

کجبتہ - رکت - بہت (رع ۱-۱۰) مذ [کجبتہ - ایک قسم کی ہندی نظم۔ کجبتہ - رکت - بہت (رع ۱-۱۰) مذ [کجبتہ - ایک قسم کی ہندی نظم۔

کجبتہ - رکت - بہت (رع ۱-۱۰) مذ [کجبتہ - ایک قسم کی ہندی نظم۔ کجبتہ - رکت - بہت (رع ۱-۱۰) مذ [کجبتہ - ایک قسم کی ہندی نظم۔

کجبتہ - رکت - بہت (رع ۱-۱۰) مذ [کجبتہ - ایک قسم کی ہندی نظم۔ کجبتہ - رکت - بہت (رع ۱-۱۰) مذ [کجبتہ - ایک قسم کی ہندی نظم۔

کجبتہ - رکت - بہت (رع ۱-۱۰) مذ [کجبتہ - ایک قسم کی ہندی نظم۔ کجبتہ - رکت - بہت (رع ۱-۱۰) مذ [کجبتہ - ایک قسم کی ہندی نظم۔

کجبتہ - رکت - بہت (رع ۱-۱۰) مذ [کجبتہ - ایک قسم کی ہندی نظم۔ کجبتہ - رکت - بہت (رع ۱-۱۰) مذ [کجبتہ - ایک قسم کی ہندی نظم۔

کجبتہ - رکت - بہت (رع ۱-۱۰) مذ [کجبتہ - ایک قسم کی ہندی نظم۔ کجبتہ - رکت - بہت (رع ۱-۱۰) مذ [کجبتہ - ایک قسم کی ہندی نظم۔

کجبتہ - رکت - بہت (رع ۱-۱۰) مذ [کجبتہ - ایک قسم کی ہندی نظم۔ کجبتہ - رکت - بہت (رع ۱-۱۰) مذ [کجبتہ - ایک قسم کی ہندی نظم۔

کجبتہ - رکت - بہت (رع ۱-۱۰) مذ [کجبتہ - ایک قسم کی ہندی نظم۔ کجبتہ - رکت - بہت (رع ۱-۱۰) مذ [کجبتہ - ایک قسم کی ہندی نظم۔

کایا کبٹ ہوجانا۔ (۱- محاورہ) رنگ رُوپ بدل جانا۔ کچھ سے کچھ ہوجانا۔ دوسرے رنگ میں آجانا۔

کایا کبٹ جسمانی تکلیف - جسمانی مرض۔ کایا کبٹ - (۱-۵) (مذ) دواؤں کے ذریعے دوبارہ جوانی حاصل کرنا۔

کایٹھ - کایٹھ - (کا - یٹھ - کا - یٹھ) (جھ - ۱-۱) مذ [ایک ہندو ذات کا نام جس کا کام نوشت و عوامند اور نشتی گری ہے۔

کایٹھ کی کھوپڑی - (۱- مٹھ) (کنیٹھ) دغا باز۔ چالاک آدمی۔ کایٹھ کی کھوپڑی۔ (۱- مٹھ) (کنیٹھ) دغا باز۔ چالاک آدمی۔

ک۔ ب۔

کبٹ - [ظرف زمان جو عمل استغمام میں آتا ہے] (۱) کس وقت کس دن - (۲) کیونکر کس طرح - کس زمانے میں؟

کب با ما میں کب بیل ٹھیں - (۱- مٹھ) کسی بات کا بہت انتظار کرنا ہوتو کہتے ہیں۔

کب تک - کب تک - (۱- مٹھ) کس وقت تک - کس زمانے تک۔

کب تنقو کے ہیں - (۱- محاورہ) (۱) بالکل تباہ نہیں کرتے۔ ہرگز متوجہ نہیں ہوتے۔ کبھی خاطر میں نہیں لاتے۔ لغزت کرتے ہیں۔

کب سے؟ (۱) تابع فعل (۱) کس وقت سے؟ کس زمانے سے؟

کب کا - (۱) تابع فعل (۱) کس زمانے کا۔ کس مدت کا۔ (۲) مدت دلاز کا۔ بڑی دیر کا۔

کبٹ - (۱- ۱۰) (مذ) (۱) انسان کی پیٹھ کی کجی۔ اصلی ہو یا بڑھاپے سے (۲) ٹیڑھ - کج (۳) خم - جھکاؤ - (۴) اونٹ یا سانڈ کے اوپر کا اچھا ہوا مقام۔ کوہان۔

کبٹ نکلنا - (۱- محاورہ) پیٹھ کا کبٹ ہوجانا۔ ٹیڑھا ہوجانا۔

کباب - (رکت - بانہ) (فت ۱-۱۰) مذ [رخ پر چڑھا کر کولوں پر بٹھنا ہوا قیمہ یا گوشت کے ٹکڑے۔ (۲) گھی وغیرہ میں تلی ہوئی تیسے کی ٹکیاں - (۳) گنا تیا [صفت] سونختہ - بریان - جلا ہوا کباب کا آئسو - (۱- مذ) وہ پانی جو سیرج کے کباب سے پختے ہوئے پکتے ہیں۔

کباب کرنا - (۱- محاورہ) (۱) کباب بنانا۔ کباب بھوننا (۲) جلا نا۔ بھوننا - (۳) رخ پھینچانا - (۴) رشک دلانا - (۵) غصہ (مذ) (۶) ڈکھ دینا۔

کباب لگانا - (۱- محاورہ) کباب بھوننا یا تیار کرنا۔

کباب ہونا - (۱- محاورہ) (۱) کباب تیار ہونا - (۲) جلنا - بھوننا - (۳) ڈکھ پانا - (۴) حسد ہونا (۵) نہایت بڑا لگنا - (۶) غصے میں

کپڑا پین - ٹیڑھ - خمیدگی۔

کپڑا پان - (کبت - ژان) [دھ۔ ۱۔ مٹ] ترکاری بیچنے والی عورت۔

کپڑی - (کبت - بڑی) کپڑا کی تانیٹ۔

کپڑیا - (دک - بڑیا) ترکاری بیچنے والا - سبزی فروش۔

کپکت - (دق - امد) پکچور - ایک ترکاری بیچنے والا اور بیچنے سُرُخ ہوتے ہیں۔ اس کی چال کو مشوق کی چال سے تشبیہ دی جاتی ہے۔

کبکت وری - (دق - دق) پہاڑی پکچور جو نہایت خوش رفتار ہوتا ہے۔

کبکت رفتار - (دق - صفت) پکچور کی طرح چلنے والا - (۲) مشوق۔

کبکت - (دق - صفت) مشکل - سخت دشوار۔

کبوتر - (دک - بو - نثر) [دق - ۱۔ مذ] ایک مشہور پرندہ۔

کبوتر باز - (دق - مذ) کبوتر پالنے اور اڑانے والا۔

کبوتر بازی - (دق - ۱۔ مٹ) کبوتر پالنے اور اڑانے کا مشغلہ۔

کبوتر باکبوتر باز یا باز - (دق - مٹ) ہرنے اپنی جنس کی طرف باجوع کرتی ہے۔ کبوتر کبوتر سے اور باز باز سے محبت رکھتا ہے۔

کبوتر خرم - (دق - امد) خانہ کعبہ کے کبوتر جن کا شکار کرنا منع ہے۔

کبوتر خانہ - (۱) دڑبا - کابک (۲) مسافر خانہ - سرلے - (۳) وہ مقام جہاں پر ایک آٹا ہے اور ایک جاتا ہے۔

کبوتر کا گونچنا - (۱) محاورہ) کبوتر کا سست ہو کر لوٹنا۔

کبوتر کی طرح لوٹنا - (۱) محاورہ) برسی طرح تڑپنا۔ لوٹ کر کبوتر کی مانند زمین پر لوٹنا۔

کبوتری - (دک - بوٹ - بوق) [دھ - ۱۔ مٹ] (۱) کبوتر کی مادہ - (۲) تاپنے والی - (۳) دوقافی - (۴) دین) خوبصورت - خوش منج۔

کبود - (دک - بو) [دق - ۱۔ مذ] (۱) نیلا رنگ - آسمانی رنگ -

(۲) نیگول -

کبودی - (دک - بو - دق) [دق - صفت] نیلا - نیگول یا آسمانی۔

کبھو - (دک - بھو) [دق - ۱۔ مٹ] (۱) کبھی - گاہے - کسی وقت - (دق)

کبھی - (دک - بھو) [دق - ۱۔ مٹ] (۱) کبھی - گاہے - کسی نہ کسی وقت - کوئی دم - (۲) شاذ و نادر اتفاقاً (۳) کسی زمانے میں (۴) ہرگز - بالکل بظن۔

کبھی ایسا ہے کبھی ویسا ہے - (۱) مثل) انقلاب زمانہ ہے۔

کبھی لڑلہ کبھی ماشہ - (۱) مثل) دم میں کچھ اور دم میں کچھ - غیر مستقل مزاج اور متزلزل شخص کی نسبت ہوتے ہیں۔

کبھی تو ہمارے بھی کوئی تھے - (۱) مثل) کسی زمانے میں ہم سے

بھی ربط و ضبط اہمیل ملاقات تھی - اگر چہ اب نہیں ہے۔

کبھی دن بڑا اور کبھی رات بڑی (۱) مثل) زمانہ ایک حال

کبھی رات بڑی اور کبھی دن (۱) پر نہیں رہتا - انقلاب

زمانہ ظاہر کرتے ہوئے ہیں۔

کبھی کا - (۱) تابع فعل) بہت دیر کا - مدت کا۔

کبھی بھہار - (۱) تابع فعل) کبھی کبھی - گاہے گاہے - بھولے چمکے۔

وقت بے وقت۔

کبھی کبھی ہے کبھی کبھی ہے - (۱) محاورہ) ایک حال پر نہیں تو لون

اور انقلاب کی نسبت ہوتے ہیں۔

کبھی کبھی گھٹا کبھی مٹھی بھر جینا - (۱) مثل) کبھی عیش کبھی دکھ، کبھی

امیر کبھی غریب - زمانے کا انقلاب۔

کبھی کھورے کے دن بھی پھرتے ہیں - (۱) مثل) کبھی زمانہ

موافق ہو ہی جاتا ہے۔

کبھی گاڑی ناؤ پر - کبھی ناؤ گاڑی پر (۱) زمانے کے انقلاب

کبھی ناؤ گاڑی پر - کبھی گاڑی ناؤ پر (۱) پر ہوتے ہیں کبھی ایسا

کبھی ویسا۔

کبھی نہ دیکھا بھرا یا اور سینے آئی کھاٹ - (۱) مثل) نودولت لوں

کے متعلق کہا جاتا ہے۔

کبھی نہ کبھی - (۱) کسی نہ کسی وقت - (۲) گاہے گاہے - (۳) بھولے بسے

کبھی نہیں - (۱) تابع فعل) ہرگز نہیں - کسی صورت میں نہیں - انکار کے

موقع پر ہوتے ہیں۔

کبیدگی - (دک - بی - ذی) [دق - ۱۔ مٹ] (۱) خمیدگی - آذر وگی -

کبیدہ - (دک - بی - ذی) [دق - ۱۔ مٹ] (۱) خمیدہ - عمیق - مول آذر وگی -

(۲) شکستہ - ٹھوڑے کیا ہوا۔

کبیدہ خاطر - (دق - صفت) رنجیدہ دل - آذر وہ خاطر - مول طبع -

کبیر - (دک - بی - ذی) [دق - ۱۔ مٹ] (۱) بڑا بزرگ - (۲) ایک خدا پرست ہندی

شاعر کا تخلص جو خدا تعالیٰ کی وحدانیت کے اشعار کا گھانا تھا۔

اس کی روش منج کل تھی - (۱) مذ] اہندوؤں کے فن گیت

جو ہولی کے موقع پر گائے جاتے ہیں - عربی جمع - کبار - کبیرا -

کبیر پنہنی - (دھ - ۱۔ مذ) - وہ لوگ جو بھگت کبیر کے مسلک اور اقوال

پر عمل کرتے ہیں۔

کبیرہ - (دک - بی - ذی) [دق - ۱۔ مٹ] (۱) کبیر کی تانیٹ - بڑی - جمع کبار -

کبیر - (دک - بی - ذی) [دق - ۱۔ مٹ] (۱) کبیر - کبیر - تنگ دل۔

کبیرہ - (دک - بی - ذی) [دق - ۱۔ مٹ] (۱) کبیرہ - کبیرہ - قری سال میں ۱۱

دن بڑھا کر شمس سال کو پورا کیا جاتا ہے۔ ان کے عرض تین سال

بعد ایک مہینہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ جس طرح سال شمس کو پورا کرنے

کے لیے چوتھے سال فروری میں ایک دن بڑھا کر اسی (۲۹) دن کا کر دیا جاتا ہے۔

کبیرہ - (دک - بی - ذی) [دق - ۱۔ مٹ] (۱) کبیرہ - کبیرہ - شاعروں کا بادشاہ۔

ک۔ پ

کپت - (۱۔ مذ) لرزہ۔ کانپنا
 کپت (Cup) [نگ۔ ۱۔ مذ] پیالہ۔
 کپت بورڈ (Cup Board) - قیمت خانہ۔ ڈولی۔
 کپت - (۱۔ مذ) جھس کا ٹیولا جو برنج کی شکل کا بنا کر رکھتے ہیں۔
 کپتا - (رکت۔ پا) [۱۔ مذ] (۱) پڑے کا چھوٹے ٹنڈ کا پھولا ہوا ظرف جس میں گھی یا تیل رکھا جاتا ہے۔ (۲) [تشبیہاً۔ صفت] موٹے جسم کا۔
 فرسہ - (۳) پھولا ہوا سیسے کی مانند بھرا ہوا۔ سو جا ہوا۔
 کپتا ایسا پھولا بیٹھنا - (۱۔ محاورہ) غصے میں بھرا ہونا۔ سو جا پھولا بیٹھا ہونا۔
 کپتا ہو جانا - (۱۔ محاورہ) (۱) پھول جانا۔ سوچ جانا۔ (۲) نہایت موٹا اور فرسہ ہو جانا۔ (۳) خفا ہو جانا۔
 کپتے کی طرح منہ پھلانا لینا - (۱۔ محاورہ) غصے سے منہ سجا لینا۔
 کپاٹ - (۱۔ مذ) دروازہ - (۲) کھٹکا۔
 کپاڑ - (رکت۔ پار) [۱۔ مذ] دیکھئے۔ کپال
 کپاڑی - (کپائی) - (رکت۔ پار۔ ری۔ ک۔ پا۔ بی۔ بی) [۱۔ مذ] [صفت] [کھوڑے کے منہ پر باندھنے کی رسی۔
 کپاس - (رکت۔ پان) [۱۔ مذ] [صفت] [بینہ صاف کی ہوئی ڈولی۔ ایسی ڈولی جس میں بنولے بھی ہوں۔ (۲) ڈولی کا پلورا۔ کپاس جس جگہ جائے گی اونٹنی سمائے گی - (۱۔ مثل) مز قند کو ہر جگہ بوجھ اٹھانا پڑے گا۔
 کپاسی - (۱۔ صفت) کپاس سے منسوب۔ ہلکا زورنگ۔ (پن) کپاہی۔
 کپال - (رکت۔ پان) [۱۔ مذ] [صفت] [کھوپڑی - کاسنہ سر - (۲) شہوچی کا لقب - (۳) مانقا۔ پیشانی - (۴) قسمت قیسمت - جھگ - (۵) بنگالی ہندوؤں کی ایک ذات۔
 کپال کرپا - (۱۔ صفت) [۱] ہندوؤں کی ایک رسم - جب چیتا میں لاش جل چکی ہے تو بیٹا اس کی کھوپڑی چھوڑ کر اس میں گھی ڈالتا ہے۔ (۲) مڑے کی کھوپڑی چھوڑنا۔
 کپتستان - (رکت۔ تیان) - (Captain) [مؤرد۔ ۱۔ مذ] فوج۔ پولیس یا جہاز کا بڑا افسر۔
 کپٹن - (رکت۔ پٹن) [۱۔ صفت] [۱] صحت [دھوکا۔ دغا۔ فریب۔ حیل۔ کھوٹ۔ (۲) بعض۔ عداوت۔ دشمنی۔ (۳) کینہ۔ نفاق۔ کدورت۔
 کپٹ رکھنا - (۱۔ محاورہ) (۱) حد رکھنا۔ کینہ رکھنا۔ عداوت رکھنا۔ کدورت رکھنا۔
 کپٹی - (رکت۔ پٹی) [۱۔ صفت] [۱] صفت [۱] دغا باز۔ فریبی۔ مکار۔ کینہ ور۔ حاسد۔ دشمن۔ بیری۔ بدخواہ۔ منافق۔ کدورت رکھنے والا۔
 کپٹی کی پرہیزت - مرن کی پرہیزت - (۱۔ مثل) کینہ ور کی دوستی

کپت - (رکت۔ پٹی) [۱۔ صفت] [۱] صفت [۱] دغا باز۔ فریبی۔ مکار۔ کینہ ور۔ حاسد۔ دشمن۔ بیری۔ بدخواہ۔ منافق۔ کدورت رکھنے والا۔
 کپٹی کی پرہیزت - مرن کی پرہیزت - (۱۔ مثل) کینہ ور کی دوستی

کچھکا ہٹ - کچھپی - ککت - ک - پا - ہٹ - کت - ک - پی (۱۰۵) - مش
 لرزہ - تھرتھری - (۲) گھبرہٹ - (عام طور پر کچھپی سے متعلق ہے)
 کچھپی چھوٹا - (گنتا) (۱) محاورہ) کا پنا - تھرتھرانا - لرزنا - خوف یا
 جازسے کے بنار کے باعث کا پینے لگنا۔

کپٹل - (ق - صفت) نیز سخت۔
 کپوٹ - (ک - پوٹ) [۱۰۵ - مذ] نالائق بیٹا - بڑا اور بد چلن
 لڑکا۔

کپوٹ بیٹا مر جھلا - (۱) مثل) نالائق بیٹے کا مرنا بہتر ہے۔
 کپوٹ - (ک - پوٹ) [۱۰۵ - مذ] کا فور۔

کپوٹ کچی - (۱۰۵ - مرث) ایک قسم کی خوشبودار گھاں کی جڑ۔
 کپوٹا - (ک - پوٹ) [۱۰۵ - مذ] خصبہ - بیہنہ - خصوصاً بکر سے یا
 بندھے کا۔

کپوٹری - (ک - پوٹ - ری) [۱۰۵ - صفت] کا فور کی طرح سفید اور
 خوشبودار - کافوری - [مذ] (۲) ایک قسم کا پان - (۳) ایک رنگ۔

کپولن - (ک - پوٹ) [ق - ۱۰۵ - مذ] گال۔
 کپولی - (ک - پوٹ) [ق - ۱۰۵ - مذ] متک - مانخا۔

کپتی - (ک - پی) [۱۰۵ - مؤنث] (۱) چھوٹا کپا - (۲) چھوٹی سی چڑی
 شیشی - (۳) بارو درکھنے کا ظرف۔

کے کھٹ جاتی ہے۔
 کتے تیزا مٹتے نہیں، تیر سے سائیں کا مٹتے ہے۔ (۱) مثل) کسی کینے
 کا قصور کسی شریف کی خاطر معاف کرتے وقت بولتے ہیں۔ کہ ان کی
 خاطر ہے ورنہ خوب سزا دیتے۔

کتے خستی (خصمی) - [۱۰۵ - محاورہ] (۱) پاجی پن - (۲) زبونی (۳) معصبت کی
 فوری - (۳) آوارہ گروی - ذلیل کام۔

کتے خصمی میں کون پرٹے - (۱) مثل) جھگڑے سے لگ رہنے کے
 موقع پر بولتے ہیں۔

کتے کا بھیجا کھانا - (۱) محاورہ) بکواس کرنے اور برابر بولے جانے والے
 کی نسبت بولتے ہیں۔

کتے کا رونا - (ممن - مرتب) کتے کا ایک خاص انداز سے بولنا ہے
 عام طور پر خوش سمجھا جاتا ہے۔

کتے کا کاٹا - (۱) مذ) کتے کے کاٹنے کا زخم۔
 کتے کا کتا بیری - (۱) مثل) ہرجمن کا دشمن کسی کی منس سے ہوتا ہے۔
 کتے کا کفن - (۱) مذ) [مخازنا] مہایت سمجھنا کہ موت کا اور
 دنیا کی بڑا - دھوتر۔

کتے کو بھی نہیں پچتا - (۱) مثل) کم ظرف میں حوصلہ نہیں ہوتا۔ کینے
 کو سامی نہیں ہوتی۔

کتے کی دم - (۱) صفت) (کنایت) کج فہم - نا اہل - بد طبیعت - جسے
 صحبت کا اثر نہ ہو۔

کتے کی دم کو بارہ برس تکی میں رکھا - پھر دیکھا تو طیرھی کی
 طیرھی - کتے کی دم موتے پر بھی طیرھی - (۱) مثل) کج طبیعت کسی
 مرتبت سے درست نہیں ہوتا۔

کتے کی سہی ہر ٹوک اٹھتا - (۱) محاورہ) کسی بڑی بات کا کبھی کبھی فٹا
 خیال آجانا - شوق اٹھنا۔

کتے کی موت آتی ہے تو مسجد کی طرف بھاگتا ہے - (۱) مثل)
 جب آدمی کی شامت آتی ہے تو دانستہ خطرناک کام میں پڑتا ہے۔

کتے کی موت مرنا - (۱) محاورہ) (۱) بڑے حال مرنا - ذلیل حالت
 میں جان دینا - (۲) حرام موت مرنا۔

کتے کے بھونکنے سے ہانختی نہیں ڈرتا - (۱) مثل) ذلیل ار کینے
 لوگوں کی دھمکی کی شریف لوگ پر دہانیں کرتے۔

کتے کے پاؤں جا اور ہٹی کے پاؤں آ - (۱) مثل) تیز جا اور
 تیز آ - جلد جا کر جلد واپس آنا۔

کتے گھبٹا - (۱) محاورہ) ذلیل کام کرنا - (۲) زڈی رکھنا۔
 کتے کوٹنا - (۱) محاورہ) ویران ہونا - اچھڑانا۔

کتا - (ق - ۱) مذ) گنڈا سا - گردن مارنے کا ہتھیار - قصابوں کا
 بڑا چھڑا - کتنام۔
 کتاب - (ک - تاب) [ع - ۱۰۵ - مش] (۱) نوشتہ - نامہ (۲) پونجی -
 نکتہ - (۳) جلد - نسخہ (۴) رسالہ - (۵) [آر] ہی - رجسٹر - بیان۔

ک - ت

کشت - (۵) تابع فعل) کدھر - کس طرف - کہاں ؟
 کتا - (کشت) (۱) [۵ - تابع فعل] کتسا ؟ (ق) -

کتا - (کشت) (تا) [۵ - ۱ - مذ] ایک قسم کی تلوار۔
 کتتا - (کشت) (تا) [۵ - ۱ - مذ] (۱) سگ - بلیک - مشہور جانور - (۲) ایک
 قسم کی گھاں جو کپڑوں سے چٹ جاتی ہے۔ (۳) غلام - (۴)
 بد وقت کا گھوڑا (۵) رہٹ کی کڑی (۶) گھڑی کا پڑتہ - (۷)
 (کنایت) کینہ - پاجی - ذلیل۔

کتا بھی دم ہلا کر مچھکتا ہے - (۱) مثل) گھر کی صفائی جب جائز
 پسند کرتے ہیں تو انسان کو سب سے زیادہ صفائی کا خیال
 رکھنا چاہیے۔

کتا دیکھے گا نہ بھونکے گا - (۱) مثل) نہ لالچی کو مال کی خبر ہوگی نہ
 نقصان پہنچائے گا - یعنی دیکھنے سے انسان کی جو کس
 برصتی ہے۔

کتا راج بھٹایا اور سکی چاٹنے آیا - (۱) مثل) کینہ آدمی اعلیٰ مرتبہ پر
 پہنچ کر اپنے ذلیل کا لحاظ نہیں رکھتا بلکہ اپنی جلی عادت کی بطور
 جوت کرتا ہے۔

کتا گھاس - (۱) مش] ایک قسم کی گھاں جو بربیب اپنے خاوں

گروہ، کھانڈ وغیرہ بنتے ہیں۔ (۲) اہلی۔
کرتاف - (دع ۱-۱) مذرتھی، جس سے پیچھے کی طرف اٹھنا یا ہٹنا ہے۔ بڑی ہتھکڑی۔
کستان - (دک - تان) (فت ۱-۱) مرث [۱۱] اسی (۲) مذکر [۱] ایک قسم کا باریک کپڑا جس کی نسبت مشورے کے چاندنی رات میں ٹکڑے ٹکڑے ہوجاتا ہے۔ لیکن یہ درست نہیں۔
کستانا - (دک - تانا) (۲) مرث [۱۱] دیکھنے کتوانا۔
کستاہوں - (ق) کہتا ہوں۔
کستانی - (دک - تانی) (۱۵-۱۱) مرث [۱۱] کاستا کا فعل۔ (۲) کاستے کی اہرت۔
کتاب - (دک - تب) (دع ۱-۱) مرث [۱۱] کتاب کی جمع۔
کتکت خانہ - (دع ۱-۱) مذ کتاب گھر۔ کتابوں کی دوکان۔
کتب ڈپو - لائبریری
کتب سماوی - (دع ۱-۱) مرث، آسمانی کتابیں۔ تورات، زبور۔ انجیل۔ قرآن مجید۔
کتب فروش - (دع ۱-۱) مذ تاجرت کتاب۔ کتابیں بیچنے والا۔ کتاب فروش۔
کتبہ - (دک - تب) (۱) مرث [۱۱] مذ وہ عبارت جو اکثر متعارف مساجد اور مراول وغیرہ کے دروازوں پر لکھا دیکھا اور لکھا دیتے ہیں۔ کتابتہ۔
کتبخدا - (دک - تب) (۱) مذ دیکھنے کا خدا۔
کتبخدائی - (دک - تب) (۱) مذ دیکھنے کے خدا۔
کتر - (دک - تکز) (۱) مرث [۱۱] کترے کی چھان۔ (۲) دمجتی۔
کتر بیونت - (۱) کاٹ چھانٹ۔ قطع برید۔ (۲) نمن۔ عمدہ برود۔ (۳) حساب میں کمی بیشی کرنا۔ منہائی۔ وضع۔ (۴) کاٹ چھانٹ۔ ٹوڑ جوڑ۔ چال۔ (۵) ٹکر۔ سوچ۔ (۶) سو سے سلف یا خرید و فروخت میں بچانا۔
کتر اکھانا - کتر کے چھانٹا۔ (۵) مرث [۱۱] راستے سے بچ کر نکل جانا۔ (۲) بیکامی اختیار کرنا۔ (۳) خدا جو کہ چلنا (۴) کتر کرنا۔ (۵) گھوم کر جانا۔ (۶) ٹیڑھا چلنا (۷) بچنا۔
کترن - (دک - تزن) (۱) مرث [۱۱] چھانٹن۔ کتری ہونی دمجتی۔ کتر اہوا لکھنا۔
کترن - (دک - تزن) (۱) مرث [۱۱] دانٹوں سے کتری ہونی چیز۔
کترنا - (دک - تزن) (۱) مرث [۱۱] قطع کرنا۔ چھانٹنا۔ کاٹنا۔
کترنا - (دک - تزن) (۱) مرث [۱۱] دانٹوں سے کاٹنا۔ (۲) پرتلو کا بھوج سے کاٹنا۔ (۳) بیچ میں سے رکھ لینا۔
کترنی - (دک - تزی) (۱) مرث [۱۱] قینچی۔ مقراض۔
کترنی سی زبان چلنا - (۱) محاورہ، دیکھنے قینچی سی زبان چلنا۔

جمع، کتب۔
کتاب آسمانی - کتاب الہی۔ (دع ۱-۱) مرث، وہ کتاب جو کسی پینبر کے ویسے سے بطور احکام خدا تعالیٰ کی طرف سے نازل ہو۔
قرآن شریف - قریت۔ زکر۔ انجیل وغیرہ۔
کتاب بین - (دع ۱-۱) مرث، کتاب پڑھنے والا۔
کتاب پرچڑھانا - (۱) محاورہ، رجسٹر میں درج کرنا۔ یہی پرکھنا۔ کھاتے میں انازا۔ نوٹ کر لینا۔
کتاب حوالہ - (دع ۱-۱) مرث، حوالے کی کتاب۔ ایسی کتاب جس سے تصنیف و تالیف میں مدد لی جاتی ہے۔
(Reference Book)
کتاب رو - (دع ۱-۱) مرث، ایسے چہرے کا۔ کتابی چہرے والا۔
کتاب رو واو - (دع ۱-۱) مرث، کسی جلسہ کی کارروائی کھنے کی کتاب۔
(Minute Book)
کتاب فروش - (دع ۱-۱) مرث، تاجر کتاب۔ کتابیں بیچنے والا۔
کتاب کا کیرا - (۱) مذ وہ کیرا جو کتابوں کو چاٹتا ہے۔ کیرم کتابی۔ (۲) مجازاً [۱] وہ شخص جو ہر وقت کتاب بینی میں مشغول رہتا ہو۔
کتاب مجید المقدس - (دع ۱-۱) مرث، بزرگ کتاب۔ الہامی کتاب۔ قرآن مجید۔
کتاب وسندت - (دع ۱-۱) مرث، قرآن مجید اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔
کتابت - (دک - تبا) (ب) (دع ۱-۱) مرث [۱۱] تحریر۔ نوشت۔ کاپی نویسی۔ محوری۔ نقل نویسی۔
کتابچہ - (دک - تبابہ) (ب) (دع ۱-۱) مذ [۱۱] چھوٹی سی کتاب۔ رسالہ۔ جزو۔
کتابیر - (دک - تبابہ) (ب) (دع ۱-۱) مذ کتبہ۔ وہ عبارت جو کتبوں پر لکھی جاتی ہے۔
کتابی - (دک - تبابی) (ب) (دع ۱-۱) مرث [۱۱] کتاب سے منسوب۔ (۲) بیضوی۔ لیبوتما۔ (۳) کھی ہونی۔ تحریری۔ یقینی۔ قابل ثوق۔ (۴) مذکر [۱] اہل کتاب۔ یہود و نصاریٰ۔
کتابی چہرہ - (دع ۱-۱) مرث [۱۱] لیبوتما چہرہ۔
کتابی علم - (دع ۱-۱) مرث [۱۱] وہ علم جو محض کتابوں سے حاصل ہوا ہو۔ بلکہ تجربہ نہ ہو۔
کتابی کافر - (دع ۱-۱) مرث [۱۱] اہل کتاب مابو مسلمانوں کے۔
کتابیات - (دع ۱-۱) مرث، کسی خاص بحث کے متعلق کتابوں کی فہرست۔
کتارا - (دک - تارا) (۱) مرث [۱۱] ایک قسم کا پتلا گنا جس سے

کتر و آل - دک - تتر - وان (جہ - صفت) آڑا - تڑپھا - اُیر ہواں -
کتر و آل چال - (۱- صفت) ٹیرھی چال -
کتر وانا - دک - تتر - وانا (جہ - مص) قطع کرنا - ترشوانا - بیونت کرانا -
کتر وائی - دک - تتر - وائی (جہ - ۱- صفت) قطع کرنے کی اُجرت -
کتری - دکنت - برئی (قی - ۱- صفت) آفت -
کتری - دکنت - برئی (قی - ۱- صفت) آفت -
کنت - دکنت - کنت (دک - صفت) (ع - ۱- مذ) کندھا - شانہ -
 مونڈھا (۲) گائے بکری کے اگلے پیروں کا اُوپر کا حصہ جو شانے سے بلا ہوتا ہے - جسے تصاب کہتے ہیں -
کتک - دکنت - دک - بکت - کنت (کا - ۱- مذ) خشکا - (۲) بنگ -
 گھومنے کا سوتلا - موشل - ڈنڈا -
کتل - دکنت - بئل (۱- صفت) [۱- صفت] اینٹ یا سبل کا ٹکڑا - (۲) پتھر کی کڑیج - (۳) مٹی کے برتن کا ٹکڑا - ٹھیکری -
کتل ترا - (۱- مذ) ٹھیکری اس طرح پھینکا کہ پانی پر تیرتی ہوئی نکل جائے -
کتلا - دکنت - لا (جہ - ۱- مذ) قتل - چھانک - ٹکڑا -
کتلے - دکنت - لے (قی - ۱- مذ) وہ سالن جو چنے کی والی درترکائی سے بنایا جاتا ہے -
کتھم - دکنت - مان (جہ - ۱- مذ) چھپاؤ - پرشیدگی (۲) سحاب - پردہ -
کتھا - دکنت - نا (جہ - ۱- صفت) اس قدر - کس مقدار کا - (۲) کہاں تک - کس درجے تک ؟ (۳) چاہے - جسقدر -
کتنے پانی میں ہے - (۱- محاورہ) (۲) کتنا عرصہ ہے - (۳) کہاں تک دستگاہ ہے -
کتھنا - دکنت - نا (جہ - مص) کاٹنا - روئی کاٹنا -
کتھنا - دکنت - نا (جہ - مص) [نمازہ ہونا - تخمینہ ہونا -
کتوال - دکنت - وال (جہ - ۱- مذ) کو تو ال کا محقق -
کتوانا - دکنت - وانا (جہ - مص) [سوت تیار کرنا - چتر چلوانا - کسی سے سوت کا ستھ کا کا لینا -
کتھا - دکنت - تھا (س - ۱- صفت) بیان - مقولہ - بات (۲) قصہ - کہانی - افسانہ (۳) ذکر - روایت - (۴) وعظ - پند مذہبی - اُپریش -
کتھا اپہنا - (۱- مص - مرکب) مقدس کتاب کا وعظ سنانا -
کتھنا - دکنت - تھا (جہ - ۱- مذ) پان کے ساتھ کھانے والی ایک سیاہی مائل چیز -
کتھنا - دکنت - نا (جہ - ۱- مذ) (۱) مڑا نہ - بساند - (۲) ناپاکی - گندگی -
کتھری - دکنت - برئی (جہ - ۱- صفت) [۱- صفت] چھترے کا ٹکڑا -

گڈڑی - (۲) کٹی (۳) بستہ -
گتھک - دکنت - تھک (جہ - ۱- مذ) [۱- صفت] لپچنے اور گانے والا (۲) لاکا - (۳) گویوں اور ناپچنے والوں کا ایک ہندو فرقہ - (۴) تعریف گو -
گتھل - دکنت - تھل (قی - ۱- مذ) رانگا -
گتھی - دکنت - تھی (جہ - ۱- صفت) [۱- صفت] شماروں کا ایک اوزار (۲) ایک قسم کی تلوار - نیچہ -
گتھی - دکنت - تھی (قی - ۱- صفت) [۱- صفت] مادہ سگ - (۲) حصار (۳) کھیتی اور پھینال عورت -
گتھی چوروں سے بل گئی مہرا دیوے کون - (۱- مثل) جب اپنے ہی دشمن ہو جائیں تو پھر ساتھ کون دے -
گتھی کا پلا - (۱- مذ) (۲) گتھی کا بچہ - پلا - (۳) ادنی آدمی - (۴) حرام کار -
گتھی کے پھینالے میں پکڑا جانا (پھینسا) - (۱- محاورہ) اور کی بلا میں پھینسا - دوسرے کے جرم میں گرفتار ہونا - مُصفت میں بدنام ہونا -
گتھی - دکنت - تھی (را - ۱- مذ) [۱- صفت] ایک قسم کا گوند - (۲) لوہا کترنے کا ایک آہنی اوزار -

ک۔ ٹ

کٹ - (۱- صفت) (۲) ایک دوا (۳) کٹی کا کاغذ - (۴) دھات - (۵) زرد کوکب - مار پیٹ - (۶) انگ - الفاظ - ٹھنڈا (۷) اگرتھے کے ناموں کو اُوپر کے دانت سے رکھ کر جانے کی آواز جو بچوں میں دوستی قطع کرنے کی علامت ہوتی ہے -
کٹ بدیا - (۱- صفت) زرد کوکب - گوشائی -
کٹ کرنا - (مص - مرکب) دوستی ترک کرنا - ملاقات چھوڑنا - آشنائی ترک کرنا -
کٹ - (جہ - ۱- صفت) [۱- صفت] کاٹ کا محقق - (۲) [مذ] سیاہ رنگ جس سے پھینٹ چھاپتے ہیں - (۳) کر - صلب -
کٹ جانا - (۱) دو ٹکڑے ہو جانا - رخم ٹگ جانا - تشرش جانا - (۲) بارش کے سبب راستے میں گڑھے پڑ جانا - (۳) شرمندہ ہو جانا - نجل ہو جانا - (۴) گذر جانا - بسر جانا - (۵) علیحدہ ہو جانا - (۶) قتل ہو جانا - (۷) رنگ اُڑ جانا - (۸) منہا ہو جانا - (۹) فصل کا صاف کیا جانا - (۱۰) بار جانا - (۱۱) خارج ہو جانا - (۱۲) دریا کا کنارہ کٹ جانا -
کٹ بچت - (۱- صفت) عواہ عواہ محبت کرنے والا -
کٹ بچتی - (۱- صفت) بے جا محبت -
کٹ کٹ جانا - (۱- محاورہ) نہایت شرمندہ ہونا - شرم کے لاکے

مرمجانا۔

کٹ کٹ کے مرنا۔ (۱۔ محاورہ) خوب جان نوڑ کر لڑنا۔ نہایت بہادری سے اور شجاعت سے لڑنا۔

کٹ کٹ کھنا۔ (۱۔ صفت) (۱) کاٹ کھانے والا۔ منہ مارنے والا (۲) حروف کی وہ شکل جس میں ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے طالب علم کا ہاتھ صاف کرنے کے لیے لکھ دیتے ہیں۔ (۳) عادت۔ لیجین۔ ڈھنگ۔ (آخری معنی میں جمع کٹ کٹے) مستعمل ہے۔

کٹ مرنانا۔ (۱۔ محاورہ) باہم لڑ کر مرنانا۔

کٹ مہنتا۔ (۱۔ مذ) (۱) بدست۔ (۲) موٹا۔ (۳) طاقت و روم۔ بے بکرا۔

کٹ مستی۔ (۱۔ صفت) (۱) قوی میل۔

کٹا۔ (۱۔ صفت) (۱) کٹا ہوا۔ کٹا ہوا۔

کٹا چھینی۔ (۱) بھر۔ سخت عداوت (۲) لڑائی بھڑائی۔ کشت و خون۔ کٹے پرنسک چھوڑنا۔ کٹے پر ٹون لگانا۔ (۱) محاورہ، زخم پر نیک ڈال کر تکلیف دینا۔ دکھ میں اور دکھ دینا۔ جیلے کو اور جلانا۔ سحر کو ماننا۔

کٹے جانانا۔ شرم کے مارے گڑے جانا۔ نہایت شرمندہ ہونا۔

کٹا۔ (۱۔ صفت) (۱) سخت۔ پکا۔ مضبوط (۲) طاقت و زور آور۔ (۳) [مثلاً] سوئی چول۔ (۴) دین، بھینس کا بچہ۔

کٹا۔ (۱۔ صفت) (۱) کٹا ہوا۔ کٹا ہوا۔ کٹا ہوا۔

کٹا چھینی۔ (۱۔ محاورہ) لوگ جو نیک۔ عداوت۔

کٹا دینا۔ (۱۔ محاورہ) پرکٹے ہوئے کبوتر کو اس غرض سے جنبش دینا کہ اسے دیکھ کر دوسرے کبوتر آئیں۔

کٹار۔ (۱۔ صفت) (۱) کٹا ہوا۔ کٹا ہوا۔ کٹا ہوا۔

کٹار۔ (۱۔ صفت) (۱) کٹا ہوا۔ کٹا ہوا۔ کٹا ہوا۔

کٹار۔ (۱۔ صفت) (۱) کٹا ہوا۔ کٹا ہوا۔ کٹا ہوا۔

کٹاری۔ (۱۔ صفت) (۱) کٹا ہوا۔ کٹا ہوا۔ کٹا ہوا۔

کٹاری۔ (۱۔ صفت) (۱) کٹا ہوا۔ کٹا ہوا۔ کٹا ہوا۔

کٹاری کی کوڑھی۔ (۱۔ صفت) (۱) کٹا ہوا۔ کٹا ہوا۔ کٹا ہوا۔

کٹاری کی کوڑھی۔ (۱۔ صفت) (۱) کٹا ہوا۔ کٹا ہوا۔ کٹا ہوا۔

کٹاری کی کوڑھی۔ (۱۔ صفت) (۱) کٹا ہوا۔ کٹا ہوا۔ کٹا ہوا۔

کٹاری کی کوڑھی۔ (۱۔ صفت) (۱) کٹا ہوا۔ کٹا ہوا۔ کٹا ہوا۔

کٹاری کی کوڑھی۔ (۱۔ صفت) (۱) کٹا ہوا۔ کٹا ہوا۔ کٹا ہوا۔

کٹاری کی کوڑھی۔ (۱۔ صفت) (۱) کٹا ہوا۔ کٹا ہوا۔ کٹا ہوا۔

کٹاری کی کوڑھی۔ (۱۔ صفت) (۱) کٹا ہوا۔ کٹا ہوا۔ کٹا ہوا۔

کٹاری کی کوڑھی۔ (۱۔ صفت) (۱) کٹا ہوا۔ کٹا ہوا۔ کٹا ہوا۔

کٹاری کی کوڑھی۔ (۱۔ صفت) (۱) کٹا ہوا۔ کٹا ہوا۔ کٹا ہوا۔

کٹاری کی کوڑھی۔ (۱۔ صفت) (۱) کٹا ہوا۔ کٹا ہوا۔ کٹا ہوا۔

کٹاری کی کوڑھی۔ (۱۔ صفت) (۱) کٹا ہوا۔ کٹا ہوا۔ کٹا ہوا۔

کٹاری کی کوڑھی۔ (۱۔ صفت) (۱) کٹا ہوا۔ کٹا ہوا۔ کٹا ہوا۔

کٹاری کی کوڑھی۔ (۱۔ صفت) (۱) کٹا ہوا۔ کٹا ہوا۔ کٹا ہوا۔

کٹاری کی کوڑھی۔ (۱۔ صفت) (۱) کٹا ہوا۔ کٹا ہوا۔ کٹا ہوا۔

کٹاری کی کوڑھی۔ (۱۔ صفت) (۱) کٹا ہوا۔ کٹا ہوا۔ کٹا ہوا۔

کٹاری کی کوڑھی۔ (۱۔ صفت) (۱) کٹا ہوا۔ کٹا ہوا۔ کٹا ہوا۔

کٹاری کی کوڑھی۔ (۱۔ صفت) (۱) کٹا ہوا۔ کٹا ہوا۔ کٹا ہوا۔

کٹاری کی کوڑھی۔ (۱۔ صفت) (۱) کٹا ہوا۔ کٹا ہوا۔ کٹا ہوا۔

کٹاری کی کوڑھی۔ (۱۔ صفت) (۱) کٹا ہوا۔ کٹا ہوا۔ کٹا ہوا۔

کٹاری کی کوڑھی۔ (۱۔ صفت) (۱) کٹا ہوا۔ کٹا ہوا۔ کٹا ہوا۔

کٹاری کی کوڑھی۔ (۱۔ صفت) (۱) کٹا ہوا۔ کٹا ہوا۔ کٹا ہوا۔

کٹاری کی کوڑھی۔ (۱۔ صفت) (۱) کٹا ہوا۔ کٹا ہوا۔ کٹا ہوا۔

کٹاری کی کوڑھی۔ (۱۔ صفت) (۱) کٹا ہوا۔ کٹا ہوا۔ کٹا ہوا۔

کٹاری کی کوڑھی۔ (۱۔ صفت) (۱) کٹا ہوا۔ کٹا ہوا۔ کٹا ہوا۔

کٹاری کی کوڑھی۔ (۱۔ صفت) (۱) کٹا ہوا۔ کٹا ہوا۔ کٹا ہوا۔

کٹاری کی کوڑھی۔ (۱۔ صفت) (۱) کٹا ہوا۔ کٹا ہوا۔ کٹا ہوا۔

کٹاری کی کوڑھی۔ (۱۔ صفت) (۱) کٹا ہوا۔ کٹا ہوا۔ کٹا ہوا۔

کٹاری کی کوڑھی۔ (۱۔ صفت) (۱) کٹا ہوا۔ کٹا ہوا۔ کٹا ہوا۔

کٹاری کی کوڑھی۔ (۱۔ صفت) (۱) کٹا ہوا۔ کٹا ہوا۔ کٹا ہوا۔

کٹاری کی کوڑھی۔ (۱۔ صفت) (۱) کٹا ہوا۔ کٹا ہوا۔ کٹا ہوا۔

کٹاری کی کوڑھی۔ (۱۔ صفت) (۱) کٹا ہوا۔ کٹا ہوا۔ کٹا ہوا۔

کٹاری کی کوڑھی۔ (۱۔ صفت) (۱) کٹا ہوا۔ کٹا ہوا۔ کٹا ہوا۔

کٹاری کی کوڑھی۔ (۱۔ صفت) (۱) کٹا ہوا۔ کٹا ہوا۔ کٹا ہوا۔

کٹاری کی کوڑھی۔ (۱۔ صفت) (۱) کٹا ہوا۔ کٹا ہوا۔ کٹا ہوا۔

کٹاری کی کوڑھی۔ (۱۔ صفت) (۱) کٹا ہوا۔ کٹا ہوا۔ کٹا ہوا۔

کٹاری کی کوڑھی۔ (۱۔ صفت) (۱) کٹا ہوا۔ کٹا ہوا۔ کٹا ہوا۔

کٹاری کی کوڑھی۔ (۱۔ صفت) (۱) کٹا ہوا۔ کٹا ہوا۔ کٹا ہوا۔

کٹاری کی کوڑھی۔ (۱۔ صفت) (۱) کٹا ہوا۔ کٹا ہوا۔ کٹا ہوا۔

کٹاری کی کوڑھی۔ (۱۔ صفت) (۱) کٹا ہوا۔ کٹا ہوا۔ کٹا ہوا۔

کٹاری کی کوڑھی۔ (۱۔ صفت) (۱) کٹا ہوا۔ کٹا ہوا۔ کٹا ہوا۔

کٹاری کی کوڑھی۔ (۱۔ صفت) (۱) کٹا ہوا۔ کٹا ہوا۔ کٹا ہوا۔

کٹاری کی کوڑھی۔ (۱۔ صفت) (۱) کٹا ہوا۔ کٹا ہوا۔ کٹا ہوا۔

کٹاری کی کوڑھی۔ (۱۔ صفت) (۱) کٹا ہوا۔ کٹا ہوا۔ کٹا ہوا۔

کٹاری کی کوڑھی۔ (۱۔ صفت) (۱) کٹا ہوا۔ کٹا ہوا۔ کٹا ہوا۔

کٹاری کی کوڑھی۔ (۱۔ صفت) (۱) کٹا ہوا۔ کٹا ہوا۔ کٹا ہوا۔

کٹاری کی کوڑھی۔ (۱۔ صفت) (۱) کٹا ہوا۔ کٹا ہوا۔ کٹا ہوا۔

کٹاری کی کوڑھی۔ (۱۔ صفت) (۱) کٹا ہوا۔ کٹا ہوا۔ کٹا ہوا۔

کٹاری کی کوڑھی۔ (۱۔ صفت) (۱) کٹا ہوا۔ کٹا ہوا۔ کٹا ہوا۔

کٹاری کی کوڑھی۔ (۱۔ صفت) (۱) کٹا ہوا۔ کٹا ہوا۔ کٹا ہوا۔

ہونا۔ (۴) شرمندہ ہونا۔ (۵) جیتنا۔ بسر ہونا۔ (۶) رستہ طے ہو جانا۔ (۷) رنگ اڑنا۔ (۸) منہا ہونا۔ (۹) کھیت میں درانتی پڑنا۔ (۱۰) حسد کرنا۔ (۱۱) ذلت ہونا۔ (۱۲) خارج ہونا۔ (۱۳) روپیہ خرچ ہونا۔ (۱۴) پانی کے زور سے زمین کا بہر جانا۔ (۱۵) پتنگ کا کٹ جانا۔ (۱۶) فلمزد ہونا۔ (۱۷) دنت بسر ہونا۔ (۱۸) بچھڑنا۔ راہ جدا ہونا۔

گٹنا۔ (گٹ۔ نا) (جھ۔ ا۔ مذکر) [۱] دیوٹ۔ بھڑو۔ [۲] (جھ۔ بیس) کوٹا جانا۔ (۳) مار کھانا۔ پٹنا

گٹنا پا۔ (گٹ۔ نا۔ پا) (جھ۔ ا۔ مذ) بھڑو اپن۔ دیوٹی۔ قُترسانی۔ گٹنی۔ (گٹ۔ نی) (جھ۔ ا۔ مٹ) [۱] دلالہ۔ ناکھ۔ [۲] (جھ۔ صف) عیارہ۔ چالاک۔ عورتوں کو درغلانے والی۔

گٹواں۔ (گٹ۔ واں) (جھ۔ صف) [۱] تراشیدہ۔ تراشا ہوا۔ (۲) سُو۔ جو ماہانہ کم یا زیادہ کر کے لیتے ہیں۔ (۳) کٹ ہوا پانی جو نالی کے ذریعے پھینتا ہے۔

گٹوانا۔ (گٹ۔ نا) (جھ۔ بیس) کسی سے کٹنے کا کام لینا۔ گٹوانا۔ (گٹ۔ نا) (جھ۔ بیس) [۱] پٹوانا۔ (۲) کسی سے کٹنے کا کام لینا۔

گٹوتی۔ (گٹ۔ تی) (جھ۔ ا۔ مٹ) [۱] بنا۔ دستوری۔ سستی کا ٹا۔ مجرائی۔ منہائی۔ (انگ) کشین۔ (۲) گٹائی۔ تراش۔ (Discount)

گٹورا۔ (گٹ۔ را) (جھ۔ ا۔ مذ) [۱] پانی پینے کا تانے یا پینیل کا پیالہ۔ (۲) پورا کھلا ہوا پھول۔ (۳) گٹا یا آب و ہوا۔ گٹورا بچنا۔ گٹورا کھٹنا۔ (۱) محاورہ [۱] رونق ہونا۔ شہر کا آباد ہونا۔ (۲) گرم بازاری ہونا۔

گٹورا پھرانا۔ گٹورا دوڑانا۔ (۱) محاورہ [۱] منتر یا کسی عمل کے زور سے جو کچھ معلوم کرنے کے لیے گٹورے میں ناموں کی جھٹیاں رکھ کر شب کو گول کے نام لے لے کر پھرانا۔ گٹوراسی آنکھیں۔ (۱) مٹ، بڑی بڑی اور گول گول آنکھیں۔ گٹور دان۔ (گٹ۔ دان) (جھ۔ ا۔ مذ) ڈھکنے والا پتیل کا برتن۔

گٹوری۔ (گٹ۔ ری) (جھ۔ ا۔ مٹ) [۱] چھوٹا گٹورا۔ پیالی (۲) انبیا کا وہ حصہ جس میں چھاتیاں رہتی ہیں۔ غلاف پستان۔ گٹول۔ (گٹ۔ ٹول) (جھ۔ ا۔ مذ) ایک بیج ذات کا آدمی۔ چنڈال۔ گٹول۔ (گٹ۔ ٹول) (جھ۔ ا۔ مذ) ایک قسم کا درخت۔ گٹھ۔ (جھ۔ ا۔ مذ) [۱] کاٹھ کا مخفقت۔ کڑی۔ چوب۔ مرکبات میں استعمال ہے۔ (۲) محنت۔ مشقت۔ ریا محنت۔

گٹھ پٹی۔ (جھ۔ ا۔ مٹ) [۱] کاٹھ کی ٹھرتی۔ کڑی کا ایک کھونا۔ (۲) نازک لڑکی۔ دوسرے کی عقل پر چلنے والی عورت۔ (۳) [مذ] بے اختیار شخص۔ بے بس۔

گٹھ بھڑا۔ (جھ۔ ا۔ مذ) مہر۔ ایک پرندہ۔ گٹھ کلاب۔ (جھ۔ ا۔ مذ) ایک قسم کا کلاب۔ گٹھ مٹا۔ کٹ مٹا۔ جابل مولوی۔ متعصب۔ ذوقاوسی۔ گٹھا۔ (جھ۔ ا۔ مذ) [۱] پانچ میرٹھے کا بیجانہ۔ (۲) ایک درخت (۳) زمین کا ایک بیجانہ جو بیج کے بیسواں حصہ ہوتا ہے۔ گٹھالی۔ (گٹ۔ ٹھالی) (جھ۔ ا۔ مٹ) [۱] چاندی یا سونا گلانے کی پیالی جو گٹھ یا سٹی اور روٹی کو کوٹ کر بنائی جاتی ہے۔ گٹھالی کرنا۔ (۱) محاورہ [۱] سونا چاندی گلانا۔ (۲) مڑے کو جلانا۔ گٹھرا۔ (گٹ۔ ٹھرا) (جھ۔ ا۔ مذ) [۱] کوسے یا کڑی کا جنگلا۔ (۲) درندہ کے رکھنے کا کڑی کا بیجرا۔ (۳) عدالتوں میں کڑی کے وہ جنگل جن میں ملزم اور گواہ کھڑے ہوتے ہیں۔ گٹھرا۔ گٹھرا۔ (گٹھ۔ را۔ گٹھ۔ ٹرا) (جھ۔ ا۔ مذ) کڑی کا بڑا اور چوڑا ظرف جو بی بی ناند۔ (۲) سنڈی۔ چھوٹا بازار۔ محکمہ۔ (۳) بھینس کا نمبر۔ گٹھن۔ (گٹ۔ ٹھن) (جھ۔ ا۔ مذ) ایک پھل، جس کے اوپر کانٹے ہوتے ہیں۔ گٹھلا۔ (گٹھ۔ لا) (جھ۔ ا۔ مذ) ٹھنسی۔ گلے کا ایک زیور۔ گٹھلا۔ (گٹھ۔ لا) (جھ۔ ا۔ مذ) [۱] اناج کا گودام۔ (۲) چوٹے کا بیٹھا (۳) کان کی ہڈی۔ گٹھن۔ (گٹ۔ ٹھن) (جھ۔ ا۔ مٹ) [۱] سخت۔ دشوار (۲) تکلیف دہ بے ٹیک مشکل۔ (۳) دشوار گزار۔ (۴) ہندی اور اردو میں بفتح دوم مستعمل ہے۔ گٹھنائی۔ (گٹھ۔ ٹھن۔ ٹھائی) (جھ۔ ا۔ مٹ) [۱] سختی۔ دشواری۔ (۲) مشکل۔ تکلیف۔ ڈکھ۔ مصیبت۔ گٹھوٹی۔ (گٹھ۔ ٹھو۔ ٹھوٹی) (جھ۔ ا۔ مٹ) [۱] کٹھ کا برتن۔ گٹھور۔ (گٹھ۔ ٹھور) (جھ۔ ا۔ مٹ) [۱] سنگدل۔ بے رحم۔ سخت۔ کٹھرا۔ بے جس۔ ظالم۔ گٹھور پن۔ (جھ۔ ا۔ مٹ) [۱] سنگدلی۔ ظلم۔ بے رحمی۔ سختی۔ بے رحمی۔ گٹھیا۔ (گٹھ۔ ٹھیا) (جھ۔ ا۔ مٹ) [۱] سخت۔ کٹھرا۔ [مٹ] بھینس کا مادہ بچہ۔ (۳) ایک قسم کا سخت چھکے والا بادام۔ (۴) ایک قسم کا گیہوں۔ گٹھیا۔ (گٹھ۔ ٹھیا) (جھ۔ ا۔ مٹ) [۱] ذخیرو۔ گودام۔ (۲) غلہ رکھنے کا مٹی کا بڑا برتن۔ (۳) اناج کی کوٹھری۔ گٹھی۔ (گٹھ۔ ٹھی) (جھ۔ ا۔ مٹ) [۱] گندے سے باریک باریک کٹا ہوا چارہ۔ (۲) پانی میں گلابا ہوا کاغذ۔ (۳) پتہ کٹا ہوا کبوتر۔ گٹھی۔ (گٹھ۔ ٹھی) (جھ۔ ا۔ مٹ) [۱] درویشوں یا زاہدوں کی جھونپڑی (۲) مرحمی۔ سجادہ گٹھی۔ (گٹھ۔ ٹھی) (جھ۔ ا۔ مٹ) [۱] دو دھ رکھنے کا مٹی کا بنا ہوا برتن۔

۶۲) مچھلی پکڑنے کا کانشا - ۳۲) جوان بھینس -
 کٹیلا - دک - ٹی - یا - [۱۰۰ - ۱ - مذکر] ۱) ایک خاردار بوٹی - ۲) ایک تھری موٹی گھاس -
 کٹیلا - دک - ٹی - آلا - [۱۰۰ - صفت] ۱) خاردار - نوک دار - ۲) دل میں کھینچنے والا - درہیا - ۳) زہریلا - قاتل - ۴) تیز - آبدار - ۵) چالاک - بہادر -

ک۔ ش

کثافت - دک - ثناء - فث - [ع - ۱ - صفت] گاڑھیاں - گھنپاں - موٹائی - ۲) غلاظت - نجاست -
 کثافت سہیا - غلاظت کو ناپنے والا آلہ (Pvrometer) -
 کثرت - دکث - زت - [ع - ۱ - صفت] ۱) زیادتی - افراط بہتات - ۲) مجازاً انہو - هجوم - پھیڑ - بھڑ -
 کثرت رائے - لوگوں کی رائے کا کسی امر کی طرف زیادہ ہونا -
 کثیر - دک - ثیز - [ع - صفت] بہت - زیادہ - افراط سے - بے شمار -
 کثیر المصالح - [ع - صفت] بہت سے ضلعوں کی شکل - (اقلیدس) -
 کثیر العیال - کثیر الاولاد - [ع - صفت] وہ شخص جس کی اولاد بہت زیادہ ہو - بہت سے بال بچوں والا -
 کثیر العلائق - [ع - صفت] کثرت سے تعلقات رکھنے والا -
 کثیر المعانی - (المعنی) [ع - صفت] وہ لفظ جس کے بہت سے معنی ہوں -
 کثیر المقاصد - [ع - صفت] جس میں بہت سے مقاصد شامل ہوں - (Multipurpose) -
 کثیر التوجس - [ع - صفت] کثرت سے واقف ہونے والا -
 کثیف - دک - ثیف - [ع - صفت] ۱) دبیز - غلیظ - گاڑھا - ۲) گندہ - میلا - ناپاک -
 کثیف الطبع - میلا آدمی - غلیظ آدمی - وہ شخص جو پاک صاف نہ رہے -

ک۔ ج

کج - [ع - صفت] ۱) خمیدہ - ٹیڑھا - تڑچھا - آڑا -
 کج اخلاق - [ع - صفت] بد اخلاق - بد مزاج - اکھڑو رکھا -
 کج ادب - [ع - صفت] بد خلق - بے وقار - روکھا - اکھڑ -

کج ادائیگی - [ع - صفت] ۱) مٹ - ۲) بے مروتی - بے وفائی - بے رنجی - ۳) دمجازاً - دشمنی - بُرائی - مداوت -
 کج بگوشی - [ع - صفت] وہ شخص جو اُلٹی سیدھی بحث کرے -
 کج بگوشی - [ع - صفت] ۱) مٹ - نامعقول گفتگو - فضول تکرار - اُلٹی پلٹی بحث -
 کج خلقی - [ع - صفت] بد مزاج - اکھڑ - بے مروت - بد اخلاق -

کج خلقی - بد مزاج - اکھڑ - بد مزاجی -
 کج دار و درمیز - [ع - صفت] پانی سے بھرے ہوئے گلاس کو ٹیڑھا رکھنا مگر گراانا نہیں - ایسے موقع پر بولتے ہیں - جب کسی شخص کو تنگ کرنے کے لیے اُسے دو متضاد باتوں کی میل پیمبر پر مجبور کیا جائے -
 کج راستے - [ع - صفت] وہ شخص جس کی تدبیر اور راستے درست نہ ہو -

کج رفتار - کج رو - [ع - صفت] ٹیڑھی چال چلنے والا - ناہنہار -
 کج روی - [ع - صفت] ۱) ٹیڑھی چال چلنا - ۲) اُلٹے راستے پر چلنا -
 کج سرشت - کج طبع - کج مزاج - [ع - صفت] بد خلق - بد طبیعت - بد اخلاق -

کج فہم - [ع - صفت] خود رائے - اُلٹی رائے کا -
 کج فہمی - [ع - صفت] ۱) مٹ - نا بھیجی - غلط فہمی -
 کج کلاہ - [ع - صفت] ۱) ٹیڑھی ٹوٹی رکھنے والا - شاہان ایران کا لقب - ۲) بالکا - تڑچھا - ۳) دکنا (بند) معشوق -
 کج کلاہی - [ع - صفت] ۱) مٹ - باکھن - خود دماغی -
 کج بیان - کج زبان - [ع - صفت] ۱) وہ شخص جس کا کلام فصیح نہ ہو - ۲) وہ شخص جو صاف نہ بول سکے -

کج مدار - [ع - صفت] ٹیڑھی چال چلنے والا -
 کج مریز - [ع - صفت] انکار میں درپردہ اقرار کرنے والا -
 کج نظر - [ع - صفت] ٹیڑھی نظر والا - بد باطن -
 کج نظری - [ع - صفت] ۱) مٹ - تڑچھی نگاہ سے دیکھنا - بد باطنی -
 کج نہاد - [ع - صفت] بد سرشت - بُری فطرت والا -
 کججا - [ع - صفت] ۱) متابع فعل [۱] - ۲) کدم جا کا محضف - کہاں - کس جگہ - ۳) نعتی کے واسطے بھی آتا ہے -

کججا - [ع - صفت] ۱) مذ - کوزہ کا بگڑا ہوا - دیکھیے - "کوزہ"
 کججات - [ع - صفت] ۱) جات - ۲) صفت [کینی ذات کا - کینہ - نیچی قوم کا - ۳) غیر ذات کا -

کجاوہ - [ع - صفت] ۱) مذ - آونٹ کی کاٹھی - جس پر دو شخص ایک دوسرے کے متقابل بیٹھے ہیں -
 کججا - [ع - صفت] ۱) تا - ۲) صفت [مکملین -
 کججرا - [ع - صفت] ۱) مذ - کابل -

کچھ کچھ نا۔ (کچ۔ ک۔ چا۔ نا) (ق۔ مص) عاجز آنا۔
 کچھ کچھ نا۔ (ہ۔ مص) غصے سے دانت پینا۔
 کچھ کچھ ہٹ۔ (ہ۔ ا۔ مرث) کچھ کا حاصل مصدر۔ دانتوں کے پینے
 کی حالت۔ زور سے دانت پینا۔
 کچھ کچھی۔ (دچ۔ ک۔ بچی) (ہ۔ ا۔ مرث) کچھ کچھی ہٹ۔
 کچھ کچھ۔ (کچ۔ کڑ) (ہ۔ ا۔ غ۔ ا) کچھ کچھ سے یا وہیل مچھلی کی ہڈی۔
 کچھ کچھ۔ (کچ۔ کون) (ا۔ ا۔ غ۔ ا) دیکھنے کی جگہ۔
 کچھ کھانا۔ (ق۔ مص) دق ہونا۔ پریشان ہونا۔
 کچھ کھلا۔ (کچ۔ لا) (ہ۔ ا۔ مذ) ایک زہر پلاصل۔ ایک زہریلی دوا۔
 کچھ کھانا۔ (کچ۔ لا۔ چا۔ نا) (ہ۔ مص) [۱] پس جانا۔ مسلا جانا۔ (۲)
 پانا مل ہونا۔ (۳) مالا جانا۔ پٹا جانا۔
 کچھ کچھ دینا۔ (کچ۔ یل۔ دے۔ نا) (ہ۔ مص) [۱] مسل دینا۔ پس دینا۔
 موٹا موٹا پس دینا۔
 کچھ کچھ ڈالنا۔ (ہ۔ مص) [۱] پس ڈالنا۔ مل دینا۔ مسل دینا۔ (۲)
 پانا مل کرو دینا۔ رو نہ ڈالنا۔
 کچھ کچھ نا۔ (کچ۔ یل۔ نا) (ہ۔ مص) [۱] مسلا۔ رگیدنا۔ رو نہ نا۔ (۲) مارنا۔
 کچھ کچھ نکالنا۔ بھر کس نکالنا۔ (۳) کسی چیز کو نہ کوب کرنا۔
 کچھ کچھی۔ (کچ۔ ی۔ لی) (ہ۔ ا۔ مرث) نوک وار دانت۔ کٹا دانت۔
 کچھ کچھی۔ (کچ۔ ی۔ لی) (ق۔ ا۔ مرث) کینپلی۔
 کچھ کچھ۔ (ق۔ ا۔ مذ) زور۔ طلا۔
 کچھ کچھ نا۔ (کچ۔ نا۔ کچ۔ نا) (ہ۔ ا۔ مرث) [۱] ایک
 درخت اور اس کے پھول جو سبزی کی طرح پکا کر کھائے
 جاتے ہیں۔
 کچھ کچھ۔ (کچ۔ چو۔) (ہ۔ ا۔ مذ) کچھ لو کی طرح کا ایک پھل۔
 کچھ کچھ۔ (دچ۔ واٹ) (ق) نفرت۔
 کچھ کچھ نا۔ (کچ۔ وا۔ نا) (ق) مص [۱] جی ملنا۔ نفرت کرنا۔ رچ کرنا۔
 میرا ہونا۔ دق ہونا۔ پہلو ہتی کرنا۔
 کچھ کچھ۔ (دچ۔ وا۔ سی) (ہ۔ ا۔ مرث) [۱] بسوانسی کا میواں حقدہ
 ۱۱۱ ۲۵ مرتبہ اچ کی مقدار۔
 کچھ کچھ۔ (کچ۔ چو۔) (ہ۔ ا۔ مرث) [۱] ہدی کی قسم کا ایک وزعت اور
 اس کی ہڈ۔
 کچھ کچھ۔ (کچ۔ چو۔ زنی) (ہ۔ ا۔ مرث) [۱] ماش کی وال بھری
 ہونی پوری۔
 کچھ کچھ کے سے گال۔ (۱) مذ) چھوٹے چھوٹے گال۔
 کچھ کچھ۔ (کچ۔ جی۔ کا) (ہ۔ ا۔ مذ) نوک لادھیز۔ بھونکنا۔ (کنا یث)
 طعن و تشنیع۔
 کچھ کچھ۔ (کچ۔ بچ۔ مر) (ہ۔ ا۔ مذ) ایک طرح کا اچار۔ جس میں کیریاں
 وغیرہ کتر کر کھاتے ہیں۔
 کچھ کچھ دینا۔ (۱) محاورہ) ٹکڑے ٹکڑے کر دینا۔ ہلاکت کے قریب

پہنچا دینا۔
 کچھ کچھ نکالنا۔ (۱) محاورہ) بھر کس نکالنا۔ بہت مارنا۔
 کچھ کچھ نا۔ (کچ۔ چو۔ نا) (ہ۔ مص) [۱] چھوٹا۔ بھونکنا۔ گھونپنا۔
 کچھ کچھ۔ (کچ۔ چو۔) (ہ۔ ا۔ مرث) [۱] تہا۔ کاتاب مل جو ناکید کے لیے آتا ہے جیسے
 ہزار کچھ۔
 کچھ کچھ۔ (ہ۔ ا۔ مذ) (۱) بن۔ پہلو (۲) دیوار کا کونا (۳) پوتر (۴) انعام نہانی۔
 (۵) کچھو۔ سنگ پشت (۶) سکھوں کا چانگھیا
 کچھ کچھ۔ کچھوئے اور چھیلیاں۔ آبی جانور۔
 کچھ کچھ۔ (ہ۔ صفت) (۱) ڈالنا کسی قدر۔ ستورا۔ (۲) استفہام کے لیے کیا؟
 کہیں؟ کوئی؟ (۳) کثرت کے لیے) بہت کچھ۔ بہت زیادہ۔
 (۴) بطور انکار۔ نہیں کی تاکید۔ بالکل۔ مطلق۔ (۵) (جب کمر
 آتا ہے) حالت کا جلد بادلنا ابر کرتا ہے۔ (۶) کسی مہلک چیز
 کے صدمہ یا اشارے کے لیے جہاں قرینہ دلالت کرے (کچھ کچھ
 کچھ مر گیا)۔
 کچھ کچھ سے نہیں۔ (۱) محاورہ) قدیم سے ہے۔ ہمیشہ سے ہے۔
 کچھ کچھ آتسو کچھ گئے۔ (۱) محاورہ) کسی قدر کم ہو گیا۔ کسی قدر تسلی ہو گئی۔
 کچھ کچھ ہتی خبر ہے۔ (۱) محاورہ) اپنی حالت کا بھی کچھ پتہ ہے۔
 کچھ کچھ اتنا فرق نہیں۔ (۱) محاورہ) کوئی زیادہ فرق نہیں۔
 کچھ کچھ اجارہ ہے۔ (۱) محاورہ) قابو نہیں۔ کچھ دعویٰ نہیں۔
 کچھ کچھ اور۔ (۱) صفت) (۲) اور بھی (۳) دوسری بات۔ (۴) تازہ۔ جدید۔
 نئی۔
 کچھ کچھ اور بات ہے۔ (۱) محاورہ) (۲) شک کے لیے بولا جاتا ہے۔ یہ بات
 نہیں کوئی اور بات ہے۔ (۳) خلاف امید بات ہے۔
 کچھ کچھ اور عالم ہو گیا ہے۔ (۱) محاورہ) حالت اور کیفیت بدل گئی ہے۔
 کچھ کچھ ایسا نہیں۔ (۱) محاورہ) جیسا خیال ہے ویسا نہیں۔
 کچھ کچھ بات بھی ہے۔ (۱) محاورہ) کوئی وجہ بھی سوال کے لیے) کس لیے؟
 آخر کوئی سبب بھی؟
 کچھ کچھ بات نہیں۔ (۱) محاورہ) معمولی بات ہے۔
 کچھ کچھ بات ہے۔ (۱) محاورہ) کس لیے؟ کیوں؟
 کچھ کچھ کی بھی خبر ہے؟ (۱) محاورہ) دنیا کے حالات سے بھی
 واقف ہو؟
 کچھ کچھ بنیاد ہے؟۔ کوئی اصل اور حقیقت نہیں۔ کیا اصل ہے؟ نہایت
 منفس اور عاجز ہے۔
 کچھ کچھ پروا نہیں۔ (۱) محاورہ) کیا ڈر ہے۔ کچھ مضائقہ نہیں۔
 کچھ کچھ پڑا یا ہے۔ (۱) مثل) جب کسی آدمی کو بغیر کسی ظاہری سبب کے
 موش دیکھتے ہیں تو یہ فقرہ کہتے ہیں۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ کیا غیب
 سے کوئی نعمت اٹھ آگئی ہے؟
 کچھ کچھ سمجھ سمجھ سمجھ۔ (۱) مثل) کسی امر کا نہیں خیال ہوا اور کسی بات
 کا نہیں۔ ہم تم برابر ہیں۔

کچھ تم نے سنا۔ (۱- محاورہ) حیرت کے قابل بات کہنے سے پہلے یہ فقرہ کہا جاتا ہے۔

کچھ تو۔ (۱- محاورہ) ذرا تو۔ مخوف اور بہت۔ کسی قدر۔ کوئی چیز۔

کچھ تو خروڑوڑہ بیٹھا اور کچھ اوپر سے فند پڑا۔ (۱- مثل) دل میں لالچ تو مخای اور پر سے نفع ہوا، حرص اور بڑھ گئی۔

کچھ تو بیٹھا ہے۔ (۱- مثل) ضرور کچھ غرض ہے۔

کچھ تو ہے۔ کوئی وجہ ضرور ہے۔ کوئی راز ہے۔

کچھ ٹھکانا ہے۔ (۱- محاورہ) کثرت اور عظمت کے موقع پر بولتے ہیں۔

کچھ حقیقت نہیں۔ (۱- محاورہ) بے حقیقت ہے۔ بے وقعت ہے۔

کچھ خبر ہے؟ (۱- محاورہ) حیرت اور تعجب کی جگہ کہتے ہیں۔

کچھ دال میں کالا کالا ہے۔ (۱- مثل) کوئی راز ہے۔ کوئی معاملہ ہے۔ کوئی شہتہ امر ہے۔

کچھ دلایتیے۔ کچھ دلوائیے۔ (۱- محاورہ) مخوف اور بہت ضرور دیکھیے۔

کچھ دور نہیں۔ (۱- محاورہ) بعد میں ہے۔ برسکتا ہے۔ شاید ایسا ہی ہو۔

کچھ دیا ہی آگے آ گیا۔ (۱- مثل) کبھی کی دی ہوئی خیرات کام آ گئی کہ خدا نے اس مصیبت سے بچا لیا۔

کچھ دیکھ کر۔ (۱- محاورہ) کچھ نقص پاکر۔ (۲) سمجھ بوجھ کر۔ (۳) طمع سے۔ لالچ سے۔

کچھ ڈر نہیں۔ (۱- محاورہ) اندیشہ نہ کرو۔ وہشت نہ کھاؤ۔ خوف نہ کرو (۲) کیا پرواہ ہے بدلے کر چھوڑیں گے۔

کچھ راہ پر آتے ہیں۔ (۱- محاورہ) نیم راضی ہو گئے ہیں۔ کچھ درست ہو گئے ہیں۔

کچھ سمجھ کر۔ (۱- تابع فعل) کسی مصلحت سے۔

کچھ سنا چاہتے ہو۔ (۱- محاورہ) گالیاں سنا چاہتے ہو؟

کچھ سونا کھوٹا کچھ سنا کھوٹا۔ (۱- مثل) ہر طرح نقصان۔ (۲) اُستاد اور شاگرد دونوں ملے۔ (۳) بگاڑ دونوں طرف سے ہوتا ہے۔

کچھ سے (کا) کچھ ہو جانا۔ (۱- محاورہ) (۲) مخوفی بات کا بڑھ جانا۔ (۳) کوئی بڑا یا کھلا کام خلاف توقع ہو جانا۔ (۴) معاملہ کا رنگ بدل جانا (۵) انقلاب ہونا۔ حالت و رنگوں ہونا۔

کچھ شک نہیں۔ (۱- محاورہ) بلاشبہ۔ بے شک۔ کسی امر کا گمان کر رہے نہیں۔ یقیناً۔

کچھ کچھ سمجھنا۔ (۱- محاورہ) اٹھا سمجھنا۔

کچھ کا کچھ کرنا۔ (۱- محاورہ) اصل کے خلاف کہنا۔ اُمید کے خلاف۔

کچھ کا کچھ ہونا۔ (۱- محاورہ) انقلاب ہونا۔ حالت و رنگوں ہونا۔

کچھ کام نہیں۔ (۱- محاورہ) کچھ واسطہ نہیں۔ کچھ تعلق نہیں۔

کچھ کام ہو جانا۔ (۱- محاورہ) کچھ تعلق پیدا ہو جانا۔ ضرورت پیش

آنا۔ کوئی عمدہ بل جانا۔

کچھ کان میں چھوٹا کھٹا۔ (۱- محاورہ) (۲) کچھ بڑی کرنا۔ (۳) کوئی منتر یا جاؤد اور پڑھ کر کان میں چھوٹنا۔ (۴) کاننا چھوٹی کرنا۔

کچھ کچھ۔ (۱- صفت) ذرا ذرا کسی قدر۔ تقریباً۔ مخوف اور بہت۔ گت۔ قدر سے قلیل۔

کچھ کتے دھرتے بن نہیں پڑتی (پڑتا)۔ (۱- محاورہ) عاجز ہونے کے لیے مستعمل ہے۔ یعنی سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کریں۔

کچھ کر دینا۔ (۱- محاورہ) (۲) کوئی کام کر کے دکھا دینا۔ (۳) جاؤد کر دینا۔ کچھ کر لینا۔ (۱- محاورہ) نیکی کرنا۔ ثواب کا کام کرنا۔ نقصان پہنچانا۔ بدلہ لینا۔

کچھ کھا جانا۔ کچھ کھا لینا۔ (۱- محاورہ) زہر کھا جانا۔ کوئی ہلکے دو اکھا کر خود کشتی کر لینا۔

کچھ کھا کے سو رہنا۔ (۱- محاورہ) زہر کھا کے سو رہنا۔ خود کشتی کرنا۔ ایزن کھانا پکانا پھانک کر لیکٹ رہنا۔

کچھ کھریں۔ (۱- محاورہ) (۲) گالی دے بیٹھنا۔ کوئی ناگوار بات کہہ دینا۔

کچھ کھوکھو کے سیکھنا۔ (۱- محاورہ) (۲) نقصان سے تجربہ حاصل کرنا۔ (۳) کھوکھو کر کے کھا کے سیدھا ہونا۔

کچھ کھیل نہیں ل۔ (۱- محاورہ) کچھ آسان نہیں۔

کچھ گره میں بھی ہے۔ (۱- محاورہ) کوئی رقم بھی پاس ہے۔ کوئی ہنر یا عرق بھی ہے۔

کچھ گوشہ جھکے کچھ کھان۔ (۱- مثل) صلح کے لیے طرفین میں نرمی چاہیے۔ کچھ تم نرم ہو کچھ وہ نرم ہوں جب کام بنے۔

کچھ گہول بیلے کچھ چندرے ڈھیلے۔ (۱- مثل) بہانہ کرنے والی عادت کی نسبت کہا جاتا ہے۔

کچھ لے رہنا۔ (۱- محاورہ) کچھ حاصل کرنا کچھ فائدہ اٹھانا۔

کچھ ملا دینا۔ (۱- محاورہ) کوئی ہلکے چیر کھانے میں ملا دینا۔ زہر ملا دینا۔

کچھ منہ سے نکالنا۔ (۱- محاورہ) زبان سے کچھ کہنا۔ بڑھلا کہنا۔

کچھ نہ اکھاڑنا۔ (۱- محاورہ) ذرا نقصان نہ پہنچانا۔ قابو نہ چل سکا۔

کچھ نہ پوچھو۔ کچھ نہ پوچھو۔ (۱- محاورہ) (۲) کہنے کے قابل نہیں۔ قابل اظہار بات نہیں۔ (۳) کیا کہتا ہے۔ کیا بات ہے۔

کچھ نہ چینا۔ (۱- محاورہ) کچھ پیش نہ جانا۔

کچھ نہ کچھ۔ (۱- محاورہ) کسی نہ کسی قدر۔ مخوف اور بہت۔ کوئی نہ کوئی چیز۔

کچھ نہ کچھ ہو رہنا۔ (۱- محاورہ) مخوفی بہت کامیابی ہونا۔

کچھ نہ نکلا۔ (۱- محاورہ) بالکل شراب نکلا۔ اکارت گیا۔

کچھ نہ ہوا۔ (۱- محاورہ) کوئی نتیجہ نہ نکلا۔

کچھ نہیں۔ (۱- محاورہ) کوئی بات نہیں (۲) بالکل نہیں۔ (۳) بڑا ہے۔ خراب ہے۔

کچھ نہیں آنا۔ (۱- محاورہ) جاہل ہے۔ کچھ نہیں جانتا ہے۔

کچھ نہیں چلنا۔ (۱- محاورہ) کچھ بس نہیں چلتا۔ قابو سے باہر ہے۔

پکھڑ نہیں رہا۔ (۱۔ محاورہ) کوئی چیز باقی نہیں بچی بالکل برہاد ہو گیا (۲)۔
 بچنے کی امید نہیں۔ (۳) طاقت ختم ہو گئی ہے (۴) بہت بواب دے گئی ہے
 پکھڑ نہیں گیا۔ (۱۔ محاورہ) ابھی بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ کچھ نقصان نہیں
 پکھڑ نہیں ہو سکتا۔ (۱۔ محاورہ) کوئی بگڑا کر نہیں ہو سکتی۔
 پکھڑ نہیں کیا۔ (۱۔ محاورہ) کوئی بھلائی نہیں کی۔ کوئی نیکی نہیں کی۔
 (۲) کوئی کام کی بات نہیں کی۔ (۳) بڑا کیا۔ اچھا نہیں کیا۔
 پکھڑ ہو۔ (۱۔ محاورہ) ہرچہ بادا باد۔ جو جو سو ہو۔ کیا پروا ہے۔
 پکھڑ ہو جانا۔ (۱۔ محاورہ) (۲) سایہ ہو جانا۔ آسیب چمٹ جانا۔ (۲) کسی
 لائق ہونا۔

پکھڑ ہو رہنا۔ (۱۔ محاورہ) (۲) کسی قابل ہو جانا۔ (۲) تھوڑا بہت فیصلہ
 ہو جانا۔
 پکھڑ ہی کہو۔ (۱۔ محاورہ) جو چاہو سو کرو۔ جو مرضی آئے سو کرو۔
 پکھڑ ہی کہو۔ (۱۔ محاورہ) ذرا نہیں سُنتا۔ کہا نہیں ماننا کچھ پروا
 نہیں۔
 پکھڑ ہی ہو۔ (۱۔ محاورہ) دیکھیے کچھ ہو۔ تاکید و تاکید۔
 پکھڑ ہے۔ (۱۔ محاورہ) کوئی بات ہے۔ دال میں کالا ہے۔ (۲)
 بہت کچھ ہے۔ بہت زیادہ ہے۔ (۳) بڑا ہی ہے۔ کھوٹ ہے۔
 ارادہ ناسد ہے۔

پکھڑ ہیں۔ (۱۔ محاورہ) کسی قابل ہیں۔ کسی لائق ہیں۔ کسی شمار میں ہیں۔
 پکھڑا۔ (پکھڑ چھا) [ھ۔ اذ] دیکھیے کچھ۔
 پکھڑا۔ (ک۔ چھا) [ھ۔ اذ] دریا کا کنارہ (۲) دریا کے قریب کی
 زمین۔ (۲) ترائی جہاں شیر رہتا ہے۔
 پکھڑی۔ (ک۔ چڑ۔ ری) [ھ۔ ا۔ مرث] [تھکھ۔ عدالت۔ انصاف گاہ۔
 پکھڑی برخواست ہونا۔ (۱) برص۔ (مرکت) عدالت بند ہونا تعیل
 ہونا۔ چھٹی ہونا۔
 پکھڑی چڑھنا۔ (۱۔ محاورہ) عدالت تک جانا۔ عدالت میں مقدمہ
 لے جانا۔ نالاش کرنا۔

پکھڑی کرنا۔ (۱۔ محاورہ) عدالت میں بیٹھ کر منصف مات طے کرنا۔
 اجلاس لگانا۔
 پکھڑی کے کہنے۔ (۱۔ مذ) عدالت کے چپڑاسی اور اہل کار جو رشوت
 کے لیے سنٹینٹ کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔

پکھڑی گرم ہونا۔ (۱۔ محاورہ) شور مچل ہونا۔ (۲) پکھڑی میں اہل معاملہ
 کا جمع ہونا۔

پکھڑی لگانا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) اجلاس کرنا (۲) بہت سے آدمیوں
 کا جمع کرنا۔ زور شور دکھانا۔ غل جمانا۔
 پکھڑنا۔ (پکھڑنا) [ھ۔ ا۔ مذ] [ما۔ جھگیا۔ گھٹنا۔

پکھڑتی۔ (ک۔ پھ۔ نی) [ھ۔ ا۔ مرث] [کپینا کی نازبت
 پکھڑتیا۔ (ک۔ چھن۔ یا) [ھ۔ ا۔ مرث] [کچھن کی تصغیر۔ ڈھیل ڈھالا۔
 گھٹنا یا جھگیا۔ گھگیا۔

پکھڑو۔ (ق۔ صفت) کچھ۔
 پکھڑو کے پکھڑو۔ (۱) [رضل] بڑوں کے بڑے۔ بدذاتوں کے بدذات۔
 پکھڑوا۔ (پکھڑوا) [ھ۔ ا۔ مذ] سنگ پشت۔ ایک دریائی جانور۔
 پکھڑواہا۔ (پکھڑوا۔ ہا) [ھ۔ ا۔ مذ] [راجپوتوں کی ایک گوت جو راجپند
 و جی کے بیٹے کشور سے ہونے کی دعویٰ دار ہے۔
 پکھڑوئی۔ (ک۔ چھڑو۔ ئی) [ھ۔ ا۔ مرث] [ٹنگوئی۔ کچھ۔
 پکھڑوئی۔ (پکھڑوئی) [ھ۔ ا۔ مرث] [کچھوے کی مادہ۔
 پکھڑتی۔ (ھ۔ صفت) کچھ کے علاوے کا گھوڑا، جس کی کڑیج میں سے ٹھکی
 ہوتی ہے۔

پکھڑانا۔ (ھ۔ ا۔ مذ) وہ کھیت جس میں ساگ اور ترکاریاں بونی ہوتی
 ہیں۔

پکھڑی۔ (ک۔ پکھڑی) [ھ۔ صفت] [کیا کی تائینٹ
 پکھڑی آسامی۔ (۱۔ مرث) (۲) غیر موروثی زمیندار۔ چند روزہ۔ (۲)
 قائم مقامی۔ عارضی بلکہ فوری۔
 پکھڑی مہی۔ (۱۔ مرث) وہ مہی جس میں رقم کے زیادہ یا کم کرنے اور
 غلطی درست کرنے کا اختیار ہو۔
 پکھڑی بدیشی۔ (۱۔ مرث) (۲) اپیل کی پہلی شنوائی جس پر اُس کے
 قابل سماعت اور لائق غور ہونے یا نہ ہونے کا دارومدار
 ہوتا ہے۔

پکھڑی تہ کارلی۔ (۱۔ مرث) ہری تہ کارلی۔ سبز تہ کارلی۔
 پکھڑی تول۔ (۱۔ مرث) کچے بٹوں کے موافق وزن۔ کچے وزن کے
 حساب سے۔

پکھڑی لوٹنا۔ (۱۔ محاورہ) کم عمری میں ہی ازالہ بکر ہونا۔
 پکھڑی رسوئی۔ (۱۔ مرث) (۲) وہ روٹی جسے جوکے سے باہر نہ کا
 سکیں۔ (۲) گھی کے بغیر روٹی۔

پکھڑی رسید۔ (۱۔ مرث) مشروط صداقت نامہ زر جو چند روز کے
 لیے باقاعدہ صداقت نامہ زر کا قائم مقام ہوتا ہے۔ (۲)
 پکھڑی دسترخوال کا ضرر۔ (۱) [رضل] نادان اور نا تجرب کار
 کی صحبت میں بدنامی اور افشائے لارا کا اندیشہ ہونا ہے۔
 طفل کو نیز سے احتراز کرنا چاہیے۔

پکھڑی سرٹک۔ (۱۔ مرث) وہ سرٹک جس پر گنکر وغیرہ کوٹ کر زمین
 کو سخت اور پختہ نہ کیا گیا ہو۔

پکھڑی سلائی۔ (پکھڑی۔ پکھڑی۔ پکھڑی۔ نا۔ لنگر۔
 پکھڑی عقل۔ (۱۔ مرث) ناقص عقل۔

پکھڑی عمر۔ (۱۔ مرث) نا تجربہ کاری اور نا سمجھی کی عمر۔
 پکھڑی کلی۔ (۱) منہ بند کلی۔ (۲) باکرہ۔ دو شیخہ۔ نابالغہ۔
 پکھڑی کلی توٹنا۔ (۱۔ محاورہ) (۲) چھوٹی عمر میں مر جانا۔ (۲) کم سنی میں
 ازالہ بکر ہونا۔

پکھڑی گولیاں کھیلنا۔ (۱۔ محاورہ) مٹی کی گولیوں سے کھیلنا جو جلد

عورت۔ سنگھ عورت۔
 کد خدا۔ کتخدا۔ (د۔ ۱۔ مذ) صاحب خانہ۔ گھروالا۔ دُوہلا۔ نوشہ۔
 خاوندِ خصم۔
 کد خدائی۔ کنج۔ ازدواج۔ بیاہ۔
 کدرا۔ (ک۔ ۱۔ ذ) (۱۔ مذ) کلیان شاہ کا ایک راگ جو عواما چاندنی
 رات میں گایا جاتا ہے۔
 کدال۔ (ک۔ ۱۔ ذ) (۱۔ مذ) [۱۔ مذ] زمین کھودنے کا ایک اوزار۔
 کدال سے قصد کھلاؤ۔ (۱۔ محاورہ) جب کوئی شخص بے پرواہ و غفلت
 ہائیں کرتا ہے تو اسی کے جواب میں کہتے ہیں کہ تم پر پاگل پن کا اثر
 ہے لہذا تم کو کدال سے قصد کھلاؤ۔ غفلت کے ناخن کو ہوش
 کی لو۔
 کدالی۔ (ک۔ ۱۔ ذ) (۱۔ مذ) [۱۔ مذ] مٹا۔ مٹا۔ مٹا۔ مٹا۔ مٹا۔
 کدلم۔ (ک۔ ۱۔ ذ) (۱۔ مذ) [۱۔ مذ] مٹا۔ مٹا۔ مٹا۔ مٹا۔ مٹا۔
 کدانا۔ (ک۔ ۱۔ ذ) (۱۔ مذ) [۱۔ مذ] مٹا۔ مٹا۔ مٹا۔ مٹا۔ مٹا۔
 کدو لے کا کام لینا۔

ٹوٹ جاتی ہیں (۱۔ ۱۔ مذ) ناخبرہ کار ہونا۔ نلوان ہونا۔
 کچی لکڑی جدر موڑ موڑ جاتی ہے۔ (۱۔ ۱۔ مذ) بچپن میں سطرچ
 پنا ہو جانے کی تشریح کر سکتے ہو۔
 کچی مٹی۔ (د۔ ۱۔ مذ) میعاد باقی۔ ابھی میعاد باقی ہو کر پورا سوڈ گنا
 لیا جائے۔
 کچی پھیلی پئی پھیلی۔ (۱۔ ۱۔ مذ) [۱۔ مذ] ایسے موٹے پر پوستے ہیں جب کوئی مرد
 کھانے کے وقت پکی ہوئی چیز میں برابر نقص نکالے جائے۔
 کچیا۔ (ک۔ ۱۔ ذ) [۱۔ مذ] مٹا۔ مٹا۔ مٹا۔ مٹا۔ مٹا۔
 کچیا جانا۔ (۱۔ محاورہ) ہمت ٹوٹ جانا۔ دل چھوڑ دینا۔ مٹا جانا۔
 کچیا نا۔ (ک۔ ۱۔ ذ) [۱۔ مذ] مٹا۔ مٹا۔ مٹا۔ مٹا۔ مٹا۔
 جانا۔ (۱۔ ۱۔ مذ) مٹا جانا۔ جھینپ جانا۔
 کچیا ندر۔ (ک۔ ۱۔ ذ) [۱۔ مذ] مٹا۔ مٹا۔ مٹا۔ مٹا۔ مٹا۔
 کچیل۔ (ک۔ ۱۔ ذ) [۱۔ مذ] مٹا۔ مٹا۔ مٹا۔ مٹا۔ مٹا۔
 کچیللا۔ (ک۔ ۱۔ ذ) [۱۔ مذ] مٹا۔ مٹا۔ مٹا۔ مٹا۔ مٹا۔

ک۔ ح

کدالی۔ (ک۔ ۱۔ ذ) (۱۔ مذ) [۱۔ مذ] مٹا۔ مٹا۔ مٹا۔ مٹا۔ مٹا۔
 کدو لے کا کام لینا۔
 کدرا۔ (ک۔ ۱۔ ذ) (۱۔ مذ) [۱۔ مذ] مٹا۔ مٹا۔ مٹا۔ مٹا۔ مٹا۔
 کدرا۔ (ک۔ ۱۔ ذ) (۱۔ مذ) [۱۔ مذ] مٹا۔ مٹا۔ مٹا۔ مٹا۔ مٹا۔
 کدرا۔ (ک۔ ۱۔ ذ) (۱۔ مذ) [۱۔ مذ] مٹا۔ مٹا۔ مٹا۔ مٹا۔ مٹا۔
 کدرا۔ (ک۔ ۱۔ ذ) (۱۔ مذ) [۱۔ مذ] مٹا۔ مٹا۔ مٹا۔ مٹا۔ مٹا۔
 کدرا۔ (ک۔ ۱۔ ذ) (۱۔ مذ) [۱۔ مذ] مٹا۔ مٹا۔ مٹا۔ مٹا۔ مٹا۔

کچال۔ (ک۔ ۱۔ ذ) [۱۔ مذ] مٹا۔ مٹا۔ مٹا۔ مٹا۔ مٹا۔
 کچال۔ (ک۔ ۱۔ ذ) [۱۔ مذ] مٹا۔ مٹا۔ مٹا۔ مٹا۔ مٹا۔
 کچال۔ (ک۔ ۱۔ ذ) [۱۔ مذ] مٹا۔ مٹا۔ مٹا۔ مٹا۔ مٹا۔
 کچال۔ (ک۔ ۱۔ ذ) [۱۔ مذ] مٹا۔ مٹا۔ مٹا۔ مٹا۔ مٹا۔
 کچال۔ (ک۔ ۱۔ ذ) [۱۔ مذ] مٹا۔ مٹا۔ مٹا۔ مٹا۔ مٹا۔
 کچال۔ (ک۔ ۱۔ ذ) [۱۔ مذ] مٹا۔ مٹا۔ مٹا۔ مٹا۔ مٹا۔

ک۔ د

کدرا۔ (ک۔ ۱۔ ذ) [۱۔ مذ] مٹا۔ مٹا۔ مٹا۔ مٹا۔ مٹا۔
 کدرا۔ (ک۔ ۱۔ ذ) [۱۔ مذ] مٹا۔ مٹا۔ مٹا۔ مٹا۔ مٹا۔
 کدرا۔ (ک۔ ۱۔ ذ) [۱۔ مذ] مٹا۔ مٹا۔ مٹا۔ مٹا۔ مٹا۔
 کدرا۔ (ک۔ ۱۔ ذ) [۱۔ مذ] مٹا۔ مٹا۔ مٹا۔ مٹا۔ مٹا۔
 کدرا۔ (ک۔ ۱۔ ذ) [۱۔ مذ] مٹا۔ مٹا۔ مٹا۔ مٹا۔ مٹا۔
 کدرا۔ (ک۔ ۱۔ ذ) [۱۔ مذ] مٹا۔ مٹا۔ مٹا۔ مٹا۔ مٹا۔

کدرا۔ (ک۔ ۱۔ ذ) [۱۔ مذ] مٹا۔ مٹا۔ مٹا۔ مٹا۔ مٹا۔
 کدرا۔ (ک۔ ۱۔ ذ) [۱۔ مذ] مٹا۔ مٹا۔ مٹا۔ مٹا۔ مٹا۔
 کدرا۔ (ک۔ ۱۔ ذ) [۱۔ مذ] مٹا۔ مٹا۔ مٹا۔ مٹا۔ مٹا۔
 کدرا۔ (ک۔ ۱۔ ذ) [۱۔ مذ] مٹا۔ مٹا۔ مٹا۔ مٹا۔ مٹا۔
 کدرا۔ (ک۔ ۱۔ ذ) [۱۔ مذ] مٹا۔ مٹا۔ مٹا۔ مٹا۔ مٹا۔
 کدرا۔ (ک۔ ۱۔ ذ) [۱۔ مذ] مٹا۔ مٹا۔ مٹا۔ مٹا۔ مٹا۔

کذیب - [ع۔ ا۔ مذ] جھوٹ۔ دروغ

ک۔ ر۔

کر۔ (س۔ ا۔ مذ) (۱) ہاتھ (۲) ہاتھی کی سونڈ۔ (۳) [مؤنث] چنگی کا معمول۔

کر۔ (م) خراج۔ مانگاری۔ (۵) ٹیکس (۶) جرمانہ۔ تاوان (۷) جزئیہ۔

کر۔ (ف۔ صفت) (۱) بہرہ۔ اُصم (۲) [مذ] زور۔ طاقت۔ قوت۔ توانائی۔ (۳) شان و شوکت۔

کر۔ (ف۔ ا۔ مذ) شان و شوکت۔ دُھم دھام۔ ٹھٹھا باٹ۔ زور۔ توانائی۔ (۳) ترک و امتشام۔

کر۔ (۱) تابع فعل (ماضی کے بعد اگر یہ ظاہر کرتا ہے کہ پہلا فعل پہلے ہوا اور

دوسرا بعد میں۔ (۲) رعایت سے۔ لحاظ سے۔ (۳) مصدک کا امر۔

کر۔ (۱) محاورہ) کوئی بات بغیر سوچے سمجھے اختیار کر لینا۔ جلدی سے

تخلی میں کوئی کام کرنا۔

کر تو ڈر نہ کر تو بھی ڈر۔ (۱) مثل) جب کسی بے گناہ پر کوئی الزام آئے

تو کہتے ہیں۔ (۲) عداسے ہر وقت پناہ مانگنی چاہیے۔

کتنے دھرتے بن نہیں پڑتی۔ (۱) محاورہ) کچھ کام نہیں ہو سکتا۔ کچھ کرنے

بن نہیں پڑتا۔

کرتے کی سبب بڑیا ہے۔ (۱) مثل) عمل کرنے سے ہی کامیابی حاصل

ہوتی ہے۔

کر۔ (۱) محاورہ) آدمی کا کوئی کام مکمل کرنا۔

کر۔ (۱) محاورہ) آدمی کا کوئی کام مکمل کرنا۔

کر۔ (۱) محاورہ) آدمی کا کوئی کام مکمل کرنا۔

کر۔ (۱) محاورہ) آدمی کا کوئی کام مکمل کرنا۔

کر۔ (۱) محاورہ) آدمی کا کوئی کام مکمل کرنا۔

کر۔ (۱) محاورہ) آدمی کا کوئی کام مکمل کرنا۔

کر۔ (۱) محاورہ) آدمی کا کوئی کام مکمل کرنا۔

کر۔ (۱) محاورہ) آدمی کا کوئی کام مکمل کرنا۔

کر۔ (۱) محاورہ) آدمی کا کوئی کام مکمل کرنا۔

کر۔ (۱) محاورہ) آدمی کا کوئی کام مکمل کرنا۔

کدو دانہ۔ (۱) پیٹ کا ایک قسم کا کدو۔ (۲) وہ بیماری جس سے سارے بدن پر سبز کدو کی مانند پھسپھسیاں نکل آتی ہیں۔

کدو کش۔ (ف۔ ا۔ مذ) ایک آگ جس سے کدو کو رگڑ کر باریک کرتے ہیں۔

کدو انا۔ (کدو انا) [ھ۔ یس] [دیکھیے کسانا۔

کدورت۔ (ک۔ ف۔ مؤنث) [ع۔ ا۔ م۔ س۔ م۔ گ۔ ل۔ ا۔ پ۔ ن۔ تھپٹ۔ ڈر۔ گ۔

ر۔ ن۔ خ۔ ش۔ آ۔ ز۔ د۔ گ۔] (۲) ط کا غبار۔

کدورت رکھنا۔ (۱) محاورہ) کینہ رکھنا۔ کپٹ رکھنا

کدو۔ (ک۔ ف۔ مؤنث) [ع۔ ا۔ مذ] (۱) جگہ۔ مقام۔ گھر۔ خانہ۔ مرکبات میں بطور

حق استعمال ہونے والے جیسے بُت کدو۔

کدھال لگ۔ (ف۔ ا۔ مذ) کب تک کہاں تک۔

کدھر۔ (ک۔ ف۔ مؤنث) [ھ۔ یس] [کدھال لگ۔ کس جگہ۔ کس طرف۔ (۲) کس طرف سے۔

کدھر آیا کدھر گیا۔ (۱) محاورہ) (۲) آنے جانے کی کچھ بھی خبر نہ ہوتی۔

(۲) غفلت اور بے خبری کے اظہار پر بھی بولا جاتا ہے۔

کدھر جاؤں کیا کروں۔ (۱) محاورہ) ہر طرح بجدری اور بے بسی ہے۔

کون سی تدبیر کروں؟ حیرت اور بجدری کی حالت میں بولا جاتا ہے۔

کدھر کا چاند نکلا۔ کدھر بھول پڑے۔ (۱) محاورہ) مقام حیرت۔

تعجب اور عمل استعجاب پر بولتے ہیں۔ (۲) کسی دوست یا عزیز کے دفعتاً آجانے پر کہتے ہیں۔ یعنی کہاں سے آگئے۔

یہ بات کیونکر ہو گئی۔

کدھن۔ (ک۔ ف۔ مؤنث) [ع۔ ا۔ م۔ س۔ م۔ گ۔ ل۔ ا۔ پ۔ ن۔ تھپٹ۔ ڈر۔ گ۔

ر۔ ن۔ خ۔ ش۔ آ۔ ز۔ د۔ گ۔] (۱) محاورہ) کدھن۔ (۲) غفلت اور بے خبری کے اظہار پر بھی بولا جاتا ہے۔

کدھن لگ۔ (ک۔ ف۔ مؤنث) [ع۔ ا۔ م۔ س۔ م۔ گ۔ ل۔ ا۔ پ۔ ن۔ تھپٹ۔ ڈر۔ گ۔

ر۔ ن۔ خ۔ ش۔ آ۔ ز۔ د۔ گ۔] (۱) محاورہ) کدھن لگ۔ (۲) غفلت اور بے خبری کے اظہار پر بھی بولا جاتا ہے۔

کدھن لگ۔ (ک۔ ف۔ مؤنث) [ع۔ ا۔ م۔ س۔ م۔ گ۔ ل۔ ا۔ پ۔ ن۔ تھپٹ۔ ڈر۔ گ۔

ر۔ ن۔ خ۔ ش۔ آ۔ ز۔ د۔ گ۔] (۱) محاورہ) کدھن لگ۔ (۲) غفلت اور بے خبری کے اظہار پر بھی بولا جاتا ہے۔

کدھن لگ۔ (ک۔ ف۔ مؤنث) [ع۔ ا۔ م۔ س۔ م۔ گ۔ ل۔ ا۔ پ۔ ن۔ تھپٹ۔ ڈر۔ گ۔

ر۔ ن۔ خ۔ ش۔ آ۔ ز۔ د۔ گ۔] (۱) محاورہ) کدھن لگ۔ (۲) غفلت اور بے خبری کے اظہار پر بھی بولا جاتا ہے۔

کدھن لگ۔ (ک۔ ف۔ مؤنث) [ع۔ ا۔ م۔ س۔ م۔ گ۔ ل۔ ا۔ پ۔ ن۔ تھپٹ۔ ڈر۔ گ۔

ر۔ ن۔ خ۔ ش۔ آ۔ ز۔ د۔ گ۔] (۱) محاورہ) کدھن لگ۔ (۲) غفلت اور بے خبری کے اظہار پر بھی بولا جاتا ہے۔

کدھن لگ۔ (ک۔ ف۔ مؤنث) [ع۔ ا۔ م۔ س۔ م۔ گ۔ ل۔ ا۔ پ۔ ن۔ تھپٹ۔ ڈر۔ گ۔

ک۔ ڈ۔

کڈھٹ۔ (ک۔ ف۔ مؤنث) [ع۔ ا۔ م۔ س۔ م۔ گ۔ ل۔ ا۔ پ۔ ن۔ تھپٹ۔ ڈر۔ گ۔

ر۔ ن۔ خ۔ ش۔ آ۔ ز۔ د۔ گ۔] (۱) محاورہ) کڈھٹ۔ (۲) غفلت اور بے خبری کے اظہار پر بھی بولا جاتا ہے۔

کڈھٹ لگ۔ (ک۔ ف۔ مؤنث) [ع۔ ا۔ م۔ س۔ م۔ گ۔ ل۔ ا۔ پ۔ ن۔ تھپٹ۔ ڈر۔ گ۔

ر۔ ن۔ خ۔ ش۔ آ۔ ز۔ د۔ گ۔] (۱) محاورہ) کڈھٹ لگ۔ (۲) غفلت اور بے خبری کے اظہار پر بھی بولا جاتا ہے۔

کڈھٹ لگ۔ (ک۔ ف۔ مؤنث) [ع۔ ا۔ م۔ س۔ م۔ گ۔ ل۔ ا۔ پ۔ ن۔ تھپٹ۔ ڈر۔ گ۔

ر۔ ن۔ خ۔ ش۔ آ۔ ز۔ د۔ گ۔] (۱) محاورہ) کڈھٹ لگ۔ (۲) غفلت اور بے خبری کے اظہار پر بھی بولا جاتا ہے۔

کڈھٹ لگ۔ (ک۔ ف۔ مؤنث) [ع۔ ا۔ م۔ س۔ م۔ گ۔ ل۔ ا۔ پ۔ ن۔ تھپٹ۔ ڈر۔ گ۔

ر۔ ن۔ خ۔ ش۔ آ۔ ز۔ د۔ گ۔] (۱) محاورہ) کڈھٹ لگ۔ (۲) غفلت اور بے خبری کے اظہار پر بھی بولا جاتا ہے۔

کڈھٹ لگ۔ (ک۔ ف۔ مؤنث) [ع۔ ا۔ م۔ س۔ م۔ گ۔ ل۔ ا۔ پ۔ ن۔ تھپٹ۔ ڈر۔ گ۔

ر۔ ن۔ خ۔ ش۔ آ۔ ز۔ د۔ گ۔] (۱) محاورہ) کڈھٹ لگ۔ (۲) غفلت اور بے خبری کے اظہار پر بھی بولا جاتا ہے۔

کڈھٹ لگ۔ (ک۔ ف۔ مؤنث) [ع۔ ا۔ م۔ س۔ م۔ گ۔ ل۔ ا۔ پ۔ ن۔ تھپٹ۔ ڈر۔ گ۔

ک۔ ذ۔

کڈا کڈا۔ (ع۔ تابع فعل) [اس طرح۔ اُس طرح۔ ایسا۔ اس کی مانند۔

کڈاب۔ (کڈاب) [ع۔ صفت] [نہایت جھوٹا۔ جھوٹوں کا

بادشاہ۔

کرار سے دم۔ (۱۔ صفت) تازہ دم۔ توانا۔ جو خشکا ہوا نہ ہو۔ شہادت نام۔
 کرار پین۔ (دک۔ را۔ را۔ پین) [۱۔ مذ] (۱۱) سختی۔ اکڑ۔ (۲۱) مضبوطی۔
 (۳) سختی۔ جھڑپھرائین۔

کراری۔ (دک۔ را۔ ری) [۱۔ صفت] کرار کی تائینت۔
 کراڑ۔ (دک۔ راڑ) [۱۔ مذ] دوکاندار۔ نکلے کا تاجر۔ بنیا۔
 کراڑا۔ (دک۔ راوڑا) [۱۔ مذ] دریا کا بگنہ کنارہ۔ دریا کے کنارے
 کی بلندی۔
 کراسہ۔ (دکڑ۔ را۔ سہ) [۱۔ مذ] جھنڈو کتاب۔ چھوٹی سی غیر عمدت
 کتاب۔

کراکل۔ (دک۔ را۔ کل) [۱۔ مذ] کلنگ۔ سارس۔ منقہ نقی۔
 (۲) ایک قسم کا بگلا۔
 کراول۔ (دک۔ را۔ ول) [۱۔ صفت] بڑے بڑے دانتوں والا۔
 ڈراوٹا۔ خونخاک۔

کرام۔ (دک۔ رام) [۱۔ صفت] کریم کی جمع۔ بڑے لوگ۔ ذی
 رتبہ اشخاص۔ سخی لوگ۔
 کرامات۔ (دک۔ را۔ مات) [۱۔ صفت] کرامت کی جمع۔ (۱)
 بزرگیاں۔ کوازشیں۔ فضیلتیں۔ (۲) [۱] عمدگی۔ بڑائی (۳)
 خرق عادات۔ جو ولی سے ظاہر ہوں۔

کرامانی۔ (دک۔ را۔ مانی) [۱۔ صفت] کرامات دکھانے والا۔ صاحب
 کرامت۔
 کراما کا تبین۔ (دک۔ را۔ مین) [۱۔ صفت] بزرگی۔ بڑائی فضیلت۔
 (۲) بخشش۔ سخاوت (۳) [۱] کرامات۔ تخریق عادت۔ (۲)
 خوبی۔ عمدگی۔ اولیائین۔ جمع۔ کرامات۔

کراٹا۔ (دک۔ را۔ ٹا) [۱۔ صفت] کراٹہ۔ انتہا۔
 کرانا۔ (دک۔ را۔ نا) [۱۔ صفت] دوسرے سے کام لینا۔ کرنا کا متعدی۔
 (دکروانا فیصیح ہے)۔
 کرانا۔ (دک۔ را۔ نا) [۱۔ مذ] مختلف قسم کا مسالا وغیرہ۔ پیچوں۔ ایک
 جنس کی چیز کو دوسری سے الگ کرنا۔

کراٹھ۔ (دک۔ را۔ ٹھ) [۱۔ مذ] ایک پیمانہ۔
 کراٹھ۔ (دک۔ را۔ ٹھ) [۱۔ صفت] سبقت لے جانا۔ آگے بڑھنا۔
 (۲) بجز منطقی کا زوال پذیر ہونا۔ (۳) راس چکر منطقۃ البروج (۴)
 منطقہ حارہ۔

کراٹھنا۔ (دک۔ را۔ ٹھنا) [۱۔ صفت] کرنا۔
 کراٹھی۔ (دک۔ را۔ ٹھی) [۱۔ صفت] اسباب لادنے کی گاڑی، جسے
 بیل یا اونٹ کھینچتے ہیں۔
 کراٹھ۔ (دک۔ را۔ ٹھ) [۱۔ مذ] دریا وغیرہ کا کنارہ۔ ساحل۔

کرائی۔ (دک۔ را۔ ئی) [۱۔ مذ] (۱) عیسائی۔ نصرانی۔ کرسچین۔ (۲)
 انگریزی دفتر کا کلرک۔ محترم۔
 کراہ۔ (دک۔ راہ) [۱۔ صفت] وہ آواز جیسی دکھ یا درد کے باعث
 نکلے۔ ہستے ہستے۔

کراہ۔ (دک۔ راہ) [۱۔ مذ] بڑا راستہ۔ ٹیڑھا راستہ۔ غلط راستہ۔
 کراہت۔ (دک۔ راہ۔ ت) [۱۔ صفت] نفرت۔ بیزاری۔ کج
 کرہت۔ (دک۔ راہ۔ نا) [۱۔ صفت] ہنسے ہائے کرنا۔ دکھ یا درد سے
 آہ آہ کرنا۔

کراؤ۔ (دک۔ را۔ او) [۱۔ مذ] ہندو جانوں وغیرہ میں بیوہ کی
 شادی کی رسم۔ (۲) رنڈی کا کسی کو شوہر بنالینا۔
 کراؤ کرنا۔ (۱) محاورہ (۲) [۱] لڑنے سے شادی کرنا (۲) بیوہ کا کسی مرد کے
 ساتھ خود نکاح پڑھوانا۔

کراؤ۔ (دک۔ را۔ او) [۱۔ مذ] ایک قسم کا چھوٹا مٹر۔
 کراؤن۔ (دک۔ را۔ آن) (Crown) [۱] تاج۔
 کراؤن پرنس۔ (Crown Prince) [۱] ولیعہد سلطنت۔
 کرایہ۔ (دک۔ را۔ یہ) [۱۔ صفت] کسی چیز کے استعمال کی اجرت۔
 بھارت۔ مزدوری۔

کرایہ آگاہنا۔ (۱) محاورہ) کرایہ وصول کرنا۔ بھاڑا لے کر جمع کرنا۔
 کرایہ پر چلانا۔ کراٹے پر دینا۔ (۱) محاورہ) بھاڑے پر دینا۔
 اجرت پر چڑھانا۔ (۲) کسی عورت کی خرچی کھانا۔
 کرایہ دار۔ کراٹے دار۔ (۱) صفت] (۲) مکان میں رہنے
 والا۔ (۳) رعیت۔ (۴) پیٹ کے اندر کا بچہ۔

کرایہ دکراٹے) دار آٹرنا۔ (۱) محاورہ) (۲) کسی مکان میں کرایہ دار
 آکر رہنا۔ (۳) حاملہ ہونا۔
 کرایہ کرنا۔ (۱) محاورہ) بھاڑا مقرر کرنا۔ بھاڑے پر دینا۔
 کرایہ کا۔ (کئی) [۱۔ صفت] وہ چیز جو کرایہ پر دی جائے۔
 کرایہ نامہ۔ (۱) مذ] وہ کاغذ جو مکان وغیرہ لینے کی بابت کرایہ
 دار کی جانب سے بطور اقرار نامہ لکھ کر دیا جائے۔

کرائی۔ (دک۔ را۔ ئی) [۱۔ صفت] کراپین۔ صفائی۔
 کراپ۔ (دک۔ را۔ پ) [۱۔ مذ] رنج و الم۔ دکھ۔ مصیبت۔ (۲) بے قراری۔
 اضطراب (۳) نہایت تکلیف اور سختی۔

کراپ۔ (دک۔ را۔ پ) [۱۔ صفت] دکھ دینے والا۔ تکلیف بڑھانے والا۔
 کراپ۔ (دک۔ را۔ پ) [۱۔ صفت] سبب و سفید ہلا ہوا۔ چنگڑا
 کراپ۔ (دک۔ را۔ پ) [۱۔ صفت] کراپ کی تائینت۔ کالے اور
 دھولے رنگ کی۔

کراپلا۔ (دک۔ را۔ پلا) [۱۔ صفت] [۱] صفت] کامقام۔ بیابان علاق
 میں اُس جگہ کا نام جہاں حضرت امام حسین نے شہادت پائی۔
 (۲) [۱] وہ جگہ جہاں تعزیے دفن کئے جاتے ہیں۔ (۳) وہ جگہ
 جہاں پانی نہلے (۴) مدین شہر دار۔ (اصل میں یہ لفظ

کرب دہلا ہے۔

کر ملائی - (کرتہ - نہ - لا - ائی) [اُرد - صفت] [کر بلا سے مشوب -
 کہ بیٹھنا - (کرتہ - بیٹھ - نا) - (۱۰ - محاورہ) [۱۱] جلدی سے کسی کام کو کر گزنا۔
 کسی کام کو اختیار کر لینا - (۱۲) خاندان کر لینا ۳۲ ہجر و بنا لینا۔
 کر پا - (کرتہ - پا) [۱۳ - صفت] مہربانی رعایت - نوازش - گرم۔

کر پا کرنا - (صفت مرکب) مہربانی کرنا - عنایت فرمانا۔

کر منت - (کرتہ - رُنت) [۱۴ - صفت] بے موسم - خلالت موسم
 کرتت - (کرتہ - رُنت) [۱۵ - صفت] دفعہ - باری - نوبت - نمبر۔
 کرتتا - (کرتہ - تا) [۱۶ - صفت] دیکھے کرتتہ۔

کرنا دھرتا - (کرتہ - تا - دھرتتا) [۱۷ - صفت] کرنے والا - فاعل -
 (۱۸) خالق - (۱۹) مالک - مختار - (۲۰) تجربہ کار - واقف کار۔

کر تار - (کرتہ - تار) [۲۱ - صفت] اٹا کرنے والا - خالق - پیدا کرنے والا۔
 کرتب - (کرتہ - تبت) [۲۲ - صفت] (۱) کام - فعل - (۲) کمال - بہتر (۳)
 چالاک - ہوشیاری - عیاری (۴) طلسم - عجیب و غریب کام -
 (۵) مشق - مہارت - عمل (۶) فن پسہ گرمی۔

کرتب دکھانا - (۱) محاورہ کمال دکھانا - کھیل دکھانا - سپاہ گرمی
 کا بہتر دکھانا۔

کرتب کی پدیا ہے - (۱) مثل - ہر کام مشق و مہارت سے ٹھیک
 ہوتا ہے۔

کرتبی - (کرتہ - بتیا - دکر - مت - بی - کرتہ - تبتہ - یا) [۲۳ - صفت] (۱)
 مال - کرنے والا - فن پسہ گرمی میں مشاق و ماہر - (۲) شعبہ و گز

بھانستی -
 کرتبی - (کرتہ - مت - نی) [۲۴ - صفت] [۱] صفت] [۲] بنیر آستینوں کے چھوٹا
 کرتہ جو عزت میں پہنتی ہیں۔

کرتوت - (کرتہ - توت) [۲۵ - صفت] [۱] مذ [۲] کام - فعل - عمل (۳) چالاک -
 فریب - کرتب (۴) بلا کام - بد عادت - (۵) جاؤ - لونا۔

کرتو ڈرتو کرتو ڈرتو - (۱) مثل [۲] انسان کو چاہیے کہ خواہ گناہ کرے
 یا نہ کرے خدا سے ڈرتا رہے۔ اکثر کسی بے گناہ کے متبتلے
 مصیبت ہونے پر بولتے ہیں۔

کرتتہ - (کرتہ - تتہ) [۲۶ - صفت] [۱] مذ [۲] جسم دھنکنے کا سیلا ہوا کپڑا - بے کار
 کی قیمت۔

کرتتی - (کرتہ - تتی) [۲۷ - صفت] [۱] صفت] [۲] ایک قسم کا ناز جو خفاش کی
 طرح چھوٹا چھوٹا ہوتا ہے۔

کرتتی - (کرتہ - تی) [۲۸ - صفت] [۱] صفت] [۲] آستینوں کے بغیر اُوچا کرتتہ
 عورتیں انجیکے اوپر پہنتی ہیں - (۳) وردی کا کوٹ۔

کر جانا - (کرتہ - جانا) [۲۹ - صفت] [۱] صفت] [۲] دھار دار چیز کی دھار ٹوٹ جانا۔
 کر جاتے (کرتے) ڈارھی والا - پکڑا جاتے موٹھوں والا -

(۳) مثل) کرے کوئی بھرے کوئی - جب بزم کسی کا ہوا اور

پکڑا جائے دوسرا تو اس موقع پر بولتے ہیں۔
 کرتجگ - (کرتہ - جگت) [۳۰ - صفت] [۱] مذ [۲] کام کرنے کا زمانہ - موجودہ زمانہ۔

کرتج - (کرتہ - رج) [۳۱ - صفت] [۱] صفت] [۲] ذمہ - ٹھکانا۔
 کرتج - (کرتہ - جب - رج) [۳۲ - صفت] [۱] صفت] [۲] ایک قسم کی لمبی تلوار۔

کرتج جھاڑنا - (کرتہ - جس) [۳۳ - صفت] [۱] صفت] [۲] پندرے کا پڑھاڑنا
 کرتچھا - (کرتہ - چھا) [۳۴ - صفت] [۱] صفت] [۲] لوسے کا ایک ڈنڈی والا ظرف جس میں
 مٹی وغیرہ دھختے ہیں - (۳) فرابینگ پین۔

کرتچی - (کرتہ - چچی) [۳۵ - صفت] [۱] صفت] [۲] موش [۳] کرتچھا کی تائیسٹ۔
 کرتخت - (کرتہ - رخت) [۳۶ - صفت] [۱] صفت] [۲] سخت - کڑا۔

کرتختگی - (کرتہ - رخت - ت - رگی) [۳۷ - صفت] [۱] صفت] [۲] سخت
 کرتہ دار - (کرتہ - دار) [۳۸ - صفت] [۱] صفت] [۲] بد لوائی (۳) کٹھنی - دھڑا۔

کرتہ دار - (کرتہ - دار) [۳۹ - صفت] [۱] صفت] [۲] مدرس [۳] طریق - قاعدہ (۴) شکل - کام۔
 (۵) چلن - خصلت - عادت۔

کرتہ دار نگاری - (کرتہ - دار) [۴۰ - صفت] [۱] صفت] [۲] سیرت نگاری - اشخاص قصہ کے
 احوال و اطوار نگاریان۔

کرتہ دکانا - (کرتہ - دکھا - نا) [۴۱ - صفت] [۱] صفت] [۲] کوئی کام بنا کر دکھانا - عمل کر
 کے دکھانا - (۳) انجام کو پہنچانا۔

کرتہ دگار - (کرتہ - دگار) [۴۲ - صفت] [۱] صفت] [۲] خالق - خدا تعالیٰ۔
 کرتہ دنی - (کرتہ - دنی) [۴۳ - صفت] [۱] صفت] [۲] کرنے کے لائق (۳) اُٹا کرنا۔

کرتہ دنی - (کرتہ - دنی) [۴۴ - صفت] [۱] صفت] [۲] کرنے کے لائق (۳) اُٹا کرنا۔

کرتہ دنی - (کرتہ - دنی) [۴۵ - صفت] [۱] صفت] [۲] کرنے کے لائق (۳) اُٹا کرنا۔

کرتہ دنی - (کرتہ - دنی) [۴۶ - صفت] [۱] صفت] [۲] کرنے کے لائق (۳) اُٹا کرنا۔

کرتہ دنی - (کرتہ - دنی) [۴۷ - صفت] [۱] صفت] [۲] کرنے کے لائق (۳) اُٹا کرنا۔

کرتہ دنی - (کرتہ - دنی) [۴۸ - صفت] [۱] صفت] [۲] کرنے کے لائق (۳) اُٹا کرنا۔

کرتہ دنی - (کرتہ - دنی) [۴۹ - صفت] [۱] صفت] [۲] کرنے کے لائق (۳) اُٹا کرنا۔

کرتہ دنی - (کرتہ - دنی) [۵۰ - صفت] [۱] صفت] [۲] کرنے کے لائق (۳) اُٹا کرنا۔

کرتہ دنی - (کرتہ - دنی) [۵۱ - صفت] [۱] صفت] [۲] کرنے کے لائق (۳) اُٹا کرنا۔

کرتہ دنی - (کرتہ - دنی) [۵۲ - صفت] [۱] صفت] [۲] کرنے کے لائق (۳) اُٹا کرنا۔

کرتہ دنی - (کرتہ - دنی) [۵۳ - صفت] [۱] صفت] [۲] کرنے کے لائق (۳) اُٹا کرنا۔

کرتہ دنی - (کرتہ - دنی) [۵۴ - صفت] [۱] صفت] [۲] کرنے کے لائق (۳) اُٹا کرنا۔

کرتہ دنی - (کرتہ - دنی) [۵۵ - صفت] [۱] صفت] [۲] کرنے کے لائق (۳) اُٹا کرنا۔

کرکسی۔ (کرز۔ نکت بہن) زن۔ معس آکرکے گا۔

کرسمس ڈے۔ (Christmas Day) ک۔ برن۔ بس۔ ڈے) [انگ۔ ۱۔ مذ] عیسیٰ یوں کا بڑا دن۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن۔ ۲۵ دسمبر۔ عید نصاریٰ۔

کرسمس ٹری۔ (Christmas Tree) شجر عید۔ سڑو کی شاخ جسے بطور درخت کرسمس کے موقع پر گھر میں رکھا جاتا ہے اور اس موقع پر موم تیاں۔ مٹھائی اور تحائف لٹکا دیے جلتے ہیں۔ کرسمس۔ (کرز۔ بہن) [۱۔ مرث] [۲] گوہر (۳) آپول کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے۔ چڑا۔

کرسمس۔ (کرز۔ سی) [ع۔ ۱۔ مرث] [۱] چوکی۔ [۲] تخت۔ مسند۔ گدی۔ [۳] عمارت کی تہ کی اونچائی [۴] زینہ۔ درجہ۔ [۵] (شعرعی اصطلاح میں) آٹھویں آسمان پر تخت الہی کا مقام۔ [۶] پیڑھی۔ پیشت۔ خانہ۔

کرسمس دینا۔ (۱) محاورہ [۲] بلا بر بیٹھنے کی عزت دینا۔ تعظیم و احترام اور آؤ جگت کرنا [۳] عمارت کو سطح زمین سے اونچ کر کے بنانا۔

کرسمس کا اہمق۔ (۱) صفت) نہایت اہمق۔ نرگاہ و دی۔ بالکل بھک۔ کرسمس نامہ۔ (ع۔ ف۔ ۱۔ مرث) سلسلہ خانہ۔ نسب نامہ۔

کرسمس شجرہ نسب۔ وہ شخص جسے افسر ملاقات کے وقت کرسمس بیٹھنے کو دیں۔ [۲] کرسمس پر بیٹھنے والا۔ [۳] ذہن نشین۔ کامیابی یا مزید حاصل کرنے والا۔

کرسمس نشین ہونا۔ (۱) محاورہ [۲] کرسمس پر بیٹھنے کے درجے کو پہنچنا۔ [۳] ٹیک بیٹھنا۔ درست ہونا۔

کرشمہ۔ (ک۔ برش۔ منز) [ف۔ ۱۔ مذ] [۱] آنکھ کی چمکی۔ ناز۔ خمرہ۔ خمرہ۔ [۲] [آر] انوکھی بات۔ حیرت انگیز بات [۳] کرامت۔ اعجاز۔ [۴] نشان۔ علامت۔

کرشمہ دکھانا۔ (۱) محاورہ) کوئی کرامت یا اعجاز دکھانا۔ کوئی عجیب اور حیرت انگیز بات کرنا۔ [۲] ناز دکھانا۔

کرشن۔ (ک۔ برش) [س۔ ۱۔ مذ] [۱] شوکے اوتار۔ کہنیا جی۔ [۲] (مجازاً) صفت [سیاہ نام آدمی۔

کرشن کش۔ کچھ دس [۱۔ مذ] چاند کے آفری دن جن میں اول ثا انھیرا رہتا ہے۔ وہ پندرہ دن جن میں چاند گھٹتا ہے۔ کرشن بیللا۔ (ک۔ ۱۔ مذ) کرشن جی کے کیل تماشے۔

کرفس۔ (ک۔ زفن) [ع۔ ۱۔ مرث] [علاسانی اجوائن۔ کرفیو۔ (Curfew) [کرز۔ ف۔ یو] [انگ۔ ۱۔ مذ] خانہ بندی کا حکم جس میں وقت مقررہ کے اندر کوئی شخص اپنے گھر سے باہر نہیں نکل سکتا۔

کرکٹ۔ (ک۔ زک) [۱۔ ۱۰۔ مذ] ڈکھ۔ درو۔ ٹیس۔

کرکٹ۔ (ک۔ ۱۔ ۱۰۔ مذ) [۱] کیکڑا [۲] بڑج سلطان۔ [۳] سفید گھوڑا۔ کرکٹ۔ (کرز۔ کٹ) [۱۔ ۱۰۔ مذ] گھاس پھوس جس و خاشاک (عام طور پر کرکٹ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے)

کرکٹ۔ (Cricket) (ک۔ ۱۔ ۱۰۔ مذ) [انگ۔ ۱۔ مذ] گیند بیلے کا کھیل۔

کرکٹ۔ (ک۔ ۱۔ ۱۰۔ مذ) [۱] کرکٹ گھاس پھوس۔ کرکٹ۔ (کرز۔ کٹ) [۱۔ ۱۰۔ مذ] سمندری نمک۔

کرکر۔ (ک۔ ۱۔ ۱۰۔ مذ) [۱] صوت) وہ آواز جو ریت اور شیشہ وغیرہ کو دانتر میں دبانے سے پیدا ہوتا ہے۔

کرکر۔ (ک۔ ک۔ ل) [۱۔ ۱۰۔ صفت] خاک آمیز۔ رتیلا۔ کرکر کر دینا۔ (۱) محاورہ [عیش۔ مزہ۔ لطف وغیرہ کے واسطے) خراب کر دینا۔ بگاڑ دینا۔

کرکر۔ (کرز۔ کٹ) [۱۔ ۱۰۔ صفت] محنت۔ بھر پورا۔ کار۔ کرکر کرنا۔ (کرز۔ ک۔ ل) [۱۔ ۱۰۔ صفت] بد مزہ کرنا۔ بھنگ ڈالنا۔

کرکر ہٹ۔ (کرز۔ ک۔ ل) [۱۔ ۱۰۔ صفت] دانست کے تلے تلکریلی چیز کے بولنے کی آواز

کرکر۔ (ک۔ ک۔ ل) [۱۔ ۱۰۔ صفت] کرکر کی تانیٹ [۲] [صفت] وقت۔ عوامی۔ ہیٹی [۳] ایک قسم کا ریشمی زرتار کپڑا۔ [۴] مٹی جی ہوتی چیز۔

کرکر۔ (۱) محاورہ [۲] سپٹ میں درو ہونا۔ [۳] گھوڑے کا پیشاب بند ہونا۔

کرکر۔ (۱) محاورہ [۲] امرار کے پرانا اسباب رکھنے کی جگہ۔ کرکر۔ (ک۔ ک۔ ل) [۱۔ ۱۰۔ صفت] کرکر کی تانیٹ [۲] [صفت] موڑ۔ چھپس۔ [۳] گھوڑے کی بدھنسی [۴] نرم اور ملائم ہڈی جو چھبائی جا سکے۔

کرکر۔ (۱) محاورہ [۲] سپٹ میں درو ہونا۔ [۳] گھوڑے کا پیشاب بند ہونا۔ [۴] شامت آنا۔

کرکر۔ (۱) محاورہ [۲] شامت آنا۔ کرکر۔ (۱۔ ۱۰۔ صفت) درو اٹھنا۔ ٹیس کرنا۔ کرکر۔ (کرز۔ کول) [۱۔ ۱۰۔ صفت] کسی ٹھوس چیز کے اندر دنی حسنے کو خالی کر دینا۔

کرگردن۔ (ک۔ گ۔ ن) [۱۔ ۱۰۔ صفت] گیند۔ کرگردن۔ (کرز۔ گ۔ ن) [۱۔ ۱۰۔ صفت] کرگردن۔ بن کی بن ہڈنا۔ اپنی ہٹ پر قائم رہنا۔

کرگرس۔ (ک۔ گ۔ ن) [۱۔ ۱۰۔ صفت] گھ۔ کرگردن۔ (ک۔ گ۔ ن) [۱۔ ۱۰۔ صفت] وہ گڑھا جس میں جولہ ہے بیٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں۔ کھڑی۔ (اصل میں یہ لفظ "کارگاہ" تھا۔

یعنی کام کرنے کی جگہ
 کہہ کر چھوڑ کر لٹا جاتے۔ ناخنی چوٹ جو لاہا کھاتے۔ (دانش)،
 ایسے موقع پر ہونے ہیں جب کوئی شخص دوسروں کی ریس کر
 کے بے فائدہ اپنا نقصان کرے یا تکلیف اٹھائے۔
 گرم۔ (دک۔ رزم) [ع۔ ۱۰۔ مذ] (۱) بزرگی (۲) بہتت۔ جو افزوی (۳) بخشش
 والی۔ (پرن۔ ۴) عنایت۔ مہربانی۔
 گرم بخشی۔ (ع۔ ف۔ ۱۔ مٹ) مہربانی۔ عنایت۔
 گرم پرور۔ گرم فرما۔ گرم گنتز۔ (ع۔ ف۔ صفت) مہربانی کرنے والا۔
 مہربان۔ عنایت کرنے والا۔
 گرم کرنا۔ (۱۔ مٹ۔ مرکب) (۱) مہربانی کرنا۔ عنایت کرنا (۲) تشریف
 لانا۔ قدم بچھ کرنا۔ (۳) رقم کرنا۔ بخشنا۔
 گرم۔ (دک۔ رزم) [ک۔ ۱۔ مذکر] (۱) کام (۲) لکری (۳) فرض (۴) چالان
 (۵) مذہبی رسم (۶) ذات کے فرائض (۷) معمول (۸) قسمت۔
 نصیبہ (مونا بلتغ دوم بولتے ہیں)۔
 گرم جھوگ۔ (۱۔ مذ) پہلے جنم میں کیے ہوئے کاموں کا پھل۔ بھلائی
 بڑائی کا نتیجہ۔
 گرم چھوڑنا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) بر نصیب ہونا۔ (۲) راند ہونا۔ (۳) بری
 اچھڑا دی ہونا۔
 گرم چاری۔ (۱۔ صفت) کارکن
 گرم کرنا۔ گرم رکھنا۔ (۱۔ مٹ) تقدیر کا کھنا ہوا۔ نوشتہ ازل۔
 گرم کا بنیاد۔ گرم کا دھنی۔ (۱۔ محاورہ) (۱) زبردست نیبے والا (۲)
 (طنزاً) بد قسمت۔
 گرم کی ریچھا نہیں ملتی۔ (۱۔ محاورہ) تقدیر کا کھنا ہوا نہیں ملتا۔
 نوشتہ ازل جو کہ رہتا ہے۔
 گرموں کو رونا۔ (۱۔ محاورہ) قسمت کو رونا۔ افسوس کرنا۔
 گرم۔ گرم کلا۔ (دک۔ رزم۔ ک۔ رزم۔ کلن۔ لا) [ف۔ ۱۔ مذ] بند گوی۔
 گرم۔ (ف۔ ۱۔ مذ) کیرا۔ کھوڑا۔
 گرم پیلیر۔ (ف۔ ۱۔ مذ) ریشم کا کیرا۔
 گرم پھور۔ (ف۔ صفت) گلن لگا ہوا۔ پیلانا۔ بوسیدہ
 گرم اللہ کو چھڑنا۔ (۱) خدا نے اس کے لئے کوئی چیز دی۔ حضرت علیؑ کے نام
 کے بعد استعمال کیا جاتا ہے۔ کیونکہ آپ نے قبل از اسلام ہی بتوں
 کو کبھی سجدہ نہیں کیا تھا۔
 گرمک۔ (دک۔ نکت) [ف۔ ۱۔ مذ] گرم کی تفسیر۔ چھوٹا کیرا۔
 گرمک شب افروز۔ (دک۔ نکت) [ف۔ ۱۔ مذ] شب چرخ (چمکنو)۔
 گرم گرم۔ (دک۔ رزم۔ ک۔ رزم) [ع۔ ۱۔ مٹ] بھر بھری، لکڑی چیز جس کا
 کی آواز۔
 گرمٹل۔ (دک۔ نکت) [ع۔ ۱۔ مذ] کڑا پیرا۔ کالوں کے نیچے کا درم۔
 گرمی۔ (دک۔ نکت) [ع۔ ۱۔ مذ] گرمی، سبب۔
 گرمی۔ (دک۔ نکت) [ع۔ ۱۔ مذ] پورب کے ہندو زمینداروں کی ایک ذات۔

گرن۔ (دک۔ رزن) [ک۔ ۱۔ مذ] (۱) کان۔ گوش۔ (۲) شنت کا قاعدہ۔
 گرن پھول۔ کان کا ایک زیور۔ گوشوارہ
 گرن۔ (دک۔ رزن) [ع۔ ۱۔ مٹ] (۱) سورج یا چاند کی شعاع۔ (۲) منبری
 یا رُو پہلی گولے کا تار۔
 گرن کا پھرا۔ نور کا تڑکا۔ علی الصبح۔
 گرنانا۔ (دک۔ نا) [ع۔ مٹ] (۱) بنانا۔ عمل میں لانا (۲) انتظام کرنا۔ بندوبست
 کرنا۔ (۳) بڑھ کر کسی سے شادی کر لینا (۴) بیوی بنانا۔ (۵) جامد کرنا۔
 ٹوٹا کرنا۔ (۶) کاروبار کرنا (۷) مجامعت کرنا (۸) فوج کرنا (۹) شروع
 کرنا۔ (۱۰) [مذ] ایک قسم کی گلگلی۔
 گرنانا خدا کا کیا ہوتا ہے۔ (۱۔ محاورہ) کیا واقعہ پیش آتا ہے عجیب واقعہ
 پیش آتا ہے۔
 گرنانا دھنا۔ (۱۔ محاورہ) انتظام کرنا۔ بندوبست کرنا۔
 گرنانا۔ (دک۔ نا) [ع۔ مٹ] (۱) موشٹ [تغیر] بگل۔ نرنا۔
 برکنا۔ (دک۔ نا) [ع۔ مٹ] دیکھیے کر جانا۔
 گرننا۔ (دک۔ رزن) [ع۔ مٹ] (۱) صفت [کرنے والا]۔
 گرنٹ۔ (Current) [انگ۔ ۱۔ مذ] رُو۔ لہر۔ خاص طور
 سے بجلی کی۔
 گرنٹا۔ (۱۔ مذ) [حکارت سے] میسائی۔ کرستان۔
 گرنجا۔ (دک۔ رزن) [ع۔ مٹ] [آرزو چتر۔ کیرا۔ نیلی آنکھوں والا۔
 گرنجا۔ (دک۔ رزج۔ وا) [ع۔ ۱۔ مذ] (۱) ایک درخت اور اسی کا خالی پھل
 (۲) خالی رنگ۔
 گرنجی۔ (دک۔ رزن) [ع۔ مٹ] [گرنجا کی تائینٹ۔ ایک قسم کا
 بوٹا۔
 گرنجی آنکھ۔ (۱۔ مٹ) نیلی آنکھ۔ کیری آنکھ۔ چشم آرزو۔
 گرنڈ۔ (دک۔ رزڈ) [ع۔ ۱۔ مذ] لاکھ اور ریت سے بنا ہوا پتھر جو ہنسیا
 نیز کرنے کے کام آتا ہے۔
 گرنڈی۔ (دک۔ رزن) [ع۔ ۱۔ مٹ] (۱) سر کی چادر (۲) کپتے ریشم
 کی لنگی۔
 گرنسی۔ (Currency) [دک۔ رزن) [ع۔ مٹ] (۱) کسی ملک کا روپیہ۔
 راج الوقت۔ کسی ملک کا روپیہ۔
 گرنسی آفس۔ (Currency Office) [انگ۔ ۱۔ مذ] نوٹوں
 کے روپے بدلنے کا محکمہ۔
 گرنسی نوٹ۔ (Currency Note) [انگ۔ ۱۔ مذ] نقدی
 کی بجائے لین دین میں متبادل ہونے والا سرکاری نوٹ۔
 گرننگ۔ (دک۔ رنگ) [ع۔ مٹ] (۱) صفت [سوکھا۔ کراٹا۔
 گرنل۔ (Colonel) [دک۔ نکت] [انگ۔ ۱۔ مذ] سردار فوج۔ لیٹننٹ
 یا فوج کا اعلیٰ افسر۔ اعلیٰ فوجی عہدہ دار۔ کرنل۔
 گرنی۔ (دک۔ نی) [ع۔ ۱۔ مٹ] (۱) کام فعل (۲) مسماروں کا ایک اوزار
 جس سے گارا چھڑانا گاتے ہیں۔

کریئر منظر - (ع - صفت) بد صورت - بڈنگل - بڈنا۔

ک - ٹ

کڑھ - (۱-۵) - مرثت) کسٹہ گایج (۲) گاڑی یا چکڑے کا لٹھ جانا۔

کڑھ - (۱-۵) - ڈکڑے کیڑا کا مختلف قسم۔

کڑھ کھا یا - (۱-۵) - محاورہ) کیڑوں کا کھا یا ہوا - کرم خوردہ - (۲) - بوسیدہ - پڑانا۔ (۳) - دستکار بنا چیکو رکھو۔

کڑھا - (ک - ٹ) - (۱-۵) - ڈکڑے کیڑا کا مختلف قسم۔

(۴) - بدمزاج (۵) - کھٹن - خوشوار - (۶) - بہادر - ویر - (۷) - دھات کا حلقہ یا کڈنا (۹) - وہ عمارت جس میں چوڑے، پتھر اور اینٹوں کے سوا کوئی کام نہ ہو۔ (۱۱) - صفت [گراں - ہنگامہ۔

کڑا پڑنا - (۱-۵) - محاورہ) سخت ہو جانا۔ (۲) - کڑی پڑھنا - بند ہونا۔

کڑا پڑنا - (۱-۵) - محاورہ) سختی - کڑیگی - مضبوطی (۲) - بہادری - (۳) - تندگی۔

کڑا پڑنا - (۱-۵) - محاورہ) سخت جوش - جھنڈے کا جوش۔

کڑا پڑنا - (۱-۵) - محاورہ) سخت دن - بخوس دن۔

کڑا سہاں - (۱-۵) - محاورہ) کالی کالی - کال - (۲) - بلنا زمانہ - اظہاس کے دن۔

کڑا کرنا - (۱-۵) - محاورہ) سخت کرنا (۲) - جھاو پڑھانا - (۳) - مضبوط کرنا۔ (۴) - جکڑنا - کسنا۔ (۵) - سختی - جھیلنا۔ (۶) - بہت بڑھنا۔

کڑا کوکس - (۱-۵) - محاورہ) دو میل سے زیادہ کا فاصلہ۔

کڑا موٹل - (۱-۵) - محاورہ) زیادہ قیمت والا۔

کڑا ہونا - (۱-۵) - محاورہ) سخت ہونا - خوشوار ہونا - گراں ہونا - بے رحم ہونا۔

کڑا پیا - (۱-۵) - محاورہ) سختی - جھیلنا۔

کڑا پڑا - (ک - ٹ) - (۱-۵) - ڈکڑے کیڑا کا مختلف قسم۔

کڑھا - (ق) -

کڑا کڑی - (ق - صفت) سخت۔

کڑا کا - (ک - ٹ) - (۱-۵) - ڈکڑے کیڑا کا مختلف قسم۔

کڑا کڑی - (ق) -

کڑا کڑی - (ق - صفت) سخت۔

کڑا کڑی - (ق) -

کڑا کڑی - (ق) -

کڑا کڑی - (ق) -

کڑا کڑی - (ق) -

کڑا کڑی - (ق) -

کڑا کڑی - (ق) -

کڑا کڑی - (ق) -

کڑا کڑی - (ق) -

کڑا کڑی - (ق) -

کڑا کڑی - (ق) -

کڑا کڑی - (ق) -

کڑا کڑی - (ق) -

کرمی - (ق) - کی - کرے - (ق) - کے۔

کرمی - (ق) - کی - کرے - (ق) - کے۔

کرمی - (ق) - کی - کرے - (ق) - کے۔

کرمی - (ق) - کی - کرے - (ق) - کے۔

کرمی - (ق) - کی - کرے - (ق) - کے۔

کرمی - (ق) - کی - کرے - (ق) - کے۔

کرمی - (ق) - کی - کرے - (ق) - کے۔

کرمی - (ق) - کی - کرے - (ق) - کے۔

کرمی - (ق) - کی - کرے - (ق) - کے۔

کرمی - (ق) - کی - کرے - (ق) - کے۔

کرمی - (ق) - کی - کرے - (ق) - کے۔

کرمی - (ق) - کی - کرے - (ق) - کے۔

کرمی - (ق) - کی - کرے - (ق) - کے۔

کرمی - (ق) - کی - کرے - (ق) - کے۔

کرمی - (ق) - کی - کرے - (ق) - کے۔

کرمی - (ق) - کی - کرے - (ق) - کے۔

کرمی - (ق) - کی - کرے - (ق) - کے۔

کرمی - (ق) - کی - کرے - (ق) - کے۔

کرمی - (ق) - کی - کرے - (ق) - کے۔

کرٹاہی - رک۔ ٹراہی (۱۰-۱-۱) مٹ [۱۰] چھوٹا کرٹھاؤ۔ سوچے کا طرت۔
 (۱۱) بک۔ سکھ۔ سولہ (۱۲) شیرینی کی نیاڑ۔
 کرٹاہی چڑھنا - (۱۱) کرٹاہی کا کسی چیز کے تھنے کے لیے چھلے پر
 رکھا جاتا۔ (۱۲) پکان کا لانا جانا۔ (۱۳) شادی کے کھانوں اور
 ضیافت کا سامان ہونا۔
 کرٹاہی میں ہاتھ ڈالنا - اپنی صداقت جتانے کو جلتے ہوئے تیل میں
 ہاتھ ڈال کر دکھادینا کہ ہم سچے ہوں گے تو ہاتھ نہیں جلے گا۔
 کرٹا بڑا - رک۔ ب۔ ٹا (۱-۱) [۱۰] آدھی ٹ۔ وہ شخص جس کی ڈاڑھی میں
 سیاہ اور سفید بال ہوں۔ (۱۲) ابق۔ چنگیز۔
 کرٹڑی ڈاڑھی - (۱-۱) مٹ، وہ ڈاڑھی جس میں سیاہ اور سفید
 بال ہوں۔
 کرٹوپ - رک۔ ٹرپ (۱-۱) [۱۰] شک۔ پیٹ۔
 کرٹپنی - (رک۔ پنی) [۱۰] [۱۰] وہ برتن جس میں جانوروں کو پانی پلایا جاتا
 ہے۔ (۱۲) عورتوں کا کرتا جس میں آستین نہیں ہوتی۔
 کرٹوینا - (۱-۱) محاورہ، نازخیزے دکھانا۔
 کرٹوٹھی - (۱-۱) مٹ، غصے کی نظر بات۔
 کرٹک - رک۔ ٹکٹ (۱-۱) مٹ [۱۰] بجلی کی آواز۔ سنت اور قییب
 آواز۔ (۱۲) کسی چیز کے ٹوٹنے کی آواز۔ (۱۳) گھوڑے کی پوہ
 زنتار۔
 کرٹک بانٹکا - (۱-۱) مٹ، بانٹا تر پھراوان۔ کرٹیل جوان۔
 کرٹک بجلی - (۱-۱) مٹ، [۱۰] توڑے دار بندوق۔ وہ بندوق جس کی
 آواز نہایت ہییب ہو۔ (۱۲) کرٹاکے کی آواز والی عورت۔ بڑب
 قاب والی عورت۔
 کرٹک کر۔ کرٹاکے کی آواز سے۔ سخت آواز سے۔
 کرٹک - رک۔ ٹکٹ (۱-۱) [۱۰] مٹ [۱۰] وہ مرنے والا بڑے دینے سے
 ڈگ گئی ہو۔ (۱۲) مٹ، خالی کھڑا۔ تھی۔
 کرٹک نامتھ - ایک قسم کا مرنج۔
 کرٹک ہونا - (۱-۱) محاورہ، مرنے کا اٹھے دینے سے باز رہنا
 کرٹکاہ - رک۔ ٹکا (۱-۱) [۱۰] کرٹاکا۔ بجلی کا شور۔ آواز۔ (۱۲) رجز۔ میلان
 میں دل بڑھانے والے اشعار یا گیت۔ (۱۳) وہ آواز جو قییب
 بادشاہ کی سواری کے آگے لگاتے ہیں۔ (۱۴) رزم نامہ۔ بہادری کے
 گیت (۱۵) گناہ (۱۶)
 کرٹکڑ - (۱-۱) مٹ [۱۰] کسی سخت چیز کے ٹوٹنے کی آواز۔ (۱۲) کسی سخت
 چیز کے چبانے کی آواز۔ (۱۳) انگلیوں کے پھٹنے کی آواز۔
 کرٹکڑ - (۱-۱) مٹ، مرنیوں کے بلانے یا بھگانے کی آواز۔
 کرٹکڑ - (۱-۱) مٹ، دانوں کے باہر گرکھانے کی آواز۔
 کرٹکڑاٹا - رک۔ کڑاٹا (۱-۱) مٹ [۱۰] زور کا۔ شدت کا (دھاڑا)
 کرٹکڑاٹا جاٹا - (۱-۱) نہایت زور کی سردی۔ شدت کا جاٹا۔
 کرٹکڑاٹا - رک۔ ٹک۔ ٹا (۱-۱) [۱۰] مٹ، گھی یا تیل کے بگھارنے

کی آواز نکھنا۔ بگھارنا۔ فارغ دینا۔
 کرٹکڑاٹا - رک۔ ٹک۔ ٹا (۱-۱) مٹ [۱۰] دانوں کا باہر گرکھ کر گھار دینا۔
 کرٹکڑاٹا - رک۔ ٹک۔ ٹا (۱-۱) مٹ [۱۰] مرنیوں کا بولنا (۱۲) بڑ بڑانا۔ (۱۳) جلتا۔ شدت کرنا۔
 (۱۴) بڑ بھلا کہنا۔
 کرٹکٹا - رک۔ ٹکٹ (۱-۱) مٹ [۱۰] گر جتنا۔ بجلی کی آواز پیدا ہونا۔ (۱۲)
 پیچ کر بولنا۔ (۱۳) باجے یا فرتت کا زور سے جتنا۔
 کرٹکٹا - رک۔ ٹکٹ (۱-۱) مٹ [۱۰] کرٹکٹا۔ ٹکٹا۔ ٹکٹا۔ (۱۲) موتی میں
 بال آنا۔ موتی کا ٹوٹ جانا۔ (۱۳) بڑ بڑا جانا۔
 کرٹکٹو - رک۔ ٹک۔ ٹو (۱-۱) مٹ [۱۰] بدمزاج عورت (۱۲) بے ہوش عورت۔
 کرٹکی - (۱-۱) مٹ، غموظ۔
 کرٹکی - رک۔ ٹکٹ (۱-۱) مٹ [۱۰] وہ چیز جس سے لڑکے چھوٹے پھٹے
 پر بندھے بیٹھتے ہیں۔
 کرٹکیٹ - رک۔ ٹکٹ (۱-۱) مٹ [۱۰] نعتیب (۱۲) شخص جو میدان جنگ
 کے اندر نظر یا نثر میں بہادریوں کو بخش اور عزت دلاتا ہے۔
 کرٹکٹنگا - رک۔ ٹکٹ (۱-۱) مٹ [۱۰] سنت کلام۔ سخت گو۔ (۱۲) قوی۔
 قرانا۔
 کرٹوا - رک۔ ٹوا (۱-۱) مٹ [۱۰] تلخ۔ نیم کے مٹھے کا (۱۲) تیز بند۔ (۱۳)
 کھاری نیکیں۔ (۱۴) بدمزاج۔ غصیل۔ (۱۵) سخت۔ اکٹھ۔
 کرٹوا غمغھو۔ پیشا پت پت۔ (۱-۱) مٹ [۱۰] بڑی چیز چھوڑ دینا
 اور اپنی چیز لے لینا۔
 کرٹوا پیل - (۱-۱) مٹ، مرسوں وغیرہ کا تیل۔ روغن تلخ۔
 کرٹوا دل کرنا - (۱-۱) محاورہ، سختی سمیٹنا۔ بہت بانہنا۔ ناگوار بات کی
 برداشت نہ کرنا۔
 کرٹوا زہر - (۱-۱) مٹ، نہایت تلخ۔ زہر ملا ہوا۔
 کرٹوا کر پلا - (۱-۱) محاورہ، نہایت بدمزاج۔
 کرٹوا کر پلا نیم چڑھا - (۱-۱) مٹ، دیکھ کر پلا اور نیم چڑھا۔
 کرٹوا کیلا - (۱-۱) مٹ، تلخ۔ ناگوار طبع۔
 کرٹوا گنا - (۱-۱) محاورہ، تلخ معلوم ہونا۔ (۱۲) ناگوار ہونا۔ بڑا معلوم ہونا۔
 کرٹوا ہونا - (۱-۱) محاورہ، کسی چیز کا تلخ اور بدمزہ ہونا۔ (۱۲) سخت
 ہونا۔ بگڑنا۔
 کرٹوا ہٹ - (۱-۱) مٹ، تلخی۔ تیزی۔
 کرٹوے کیسلے دن - (۱-۱) مٹ، بڑے بھلے دن۔ سختی اور مصیبت کے
 دن۔ یعنی کا زمانہ۔ (۱۲) گل کا آٹھواں پھیند۔
 کرٹوے گھوٹ - (۱-۱) مٹ، شکل اور ناگوار بات۔ کشن کام۔ کار
 سخت۔
 کرٹوانا - رک۔ ٹوا (۱-۱) مٹ [۱۰] کرٹوا ہٹ آجانا (۱۲) گھٹا ہونا۔
 (۱۳) ہیند میں بھرنا
 کرٹوڑ - رک۔ ٹوڑ (۱-۱) مٹ [۱۰] دیکھ کر
 کرٹوڑا - رک۔ ٹوڑ (۱-۱) مٹ [۱۰] حاکم اعلیٰ۔ وہ حاکم جو اور افسروں پر افسر

کس زبان سے تعریف ہو۔ (۱۔ مثل) تعریف نہیں ہو سکتی۔ بہت اچھا ہے۔
 کس شخص کا منہ دیکھ کے اٹھا ہوں۔ (۱۔ محاورہ) جب کسی شخص کو کوئی
 زحمت پیش آتی ہے تو یہ فقرہ کہتا ہے۔ مطلب یہ کہ صبح اٹھ کر کسی
 منہ سے آوی کا منہ دیکھا تھا کہ یہ زحمت پیش آئی۔
 کس شمار و قطار (گنتی) میں ہے؟ (۱۔ محاورہ) کون پوچھتا ہے؟
 کوئی نہیں جانتا۔ کچھ قدر و منزلت نہیں۔
 کس طرح؟ (۱۔ تابع فعل) کیونکر۔ کیسے۔ کس سبب سے؟
 کس قدر۔ (۱۔ تابع فعل) (۱) کتنا؟ (۲) نہایت۔ حد سے زیادہ۔
 کس قیامت کے۔ (۱۔ صفت) کس بلا کے! کس غضب کے!
 کس کا؟ (۱۔ تابع فعل) کس شخص کا؟ کون سے آدمی کا؟
 کس کا سہرا لائیں؟ (لا قول)؟ (۱۔ محاورہ) کسی شخص کی مدد چاہنے
 کے لیے کہتے ہیں۔ کوئی ہوتو یہ کام سہرا انجام ہو سکے۔ (۲۔ بعض اوقات
 کسی کی باتوں سے تنگ آکر بھی کہتے ہیں۔
 کس کا فو کو اعتبار آئے گا۔ (۱۔ محاورہ) کسی کو اعتبار نہیں آئے گا۔
 کس کام آئے گا۔ (۱۔ محاورہ) بیکار ہے۔ فضول ہے۔
 کس کام کا (کی۔ کے) [۱۔ صفت] نیکمیا۔ بکمی۔ بے کار۔ ناکارہ۔
 کس کام کو نکلا نکھانیا گیا کہ آیا۔ (۱۔ محاورہ) جب غلطی سے اصل مقصود کو قبول
 کر آئی کوئی اور کام کو بیٹھتا ہے تو بولتے ہیں۔
 کس کا منہ ہے۔ (۱۔ محاورہ) کس کی طاقت ہے۔ کس کی حیثیت ہے۔
 کس کان سے سنوں۔ (۱۔ محاورہ) یہ بات بڑی ناگوار ہے۔
 کس کان میں فرشتے نے نہیں پھونکا ہے۔ (۱۔ مثل) منہ زور کی نسبت
 کہتے ہیں۔
 کس کتاب میں لکھا ہے۔ (۱۔ محاورہ) کس قانون کے مطابق ہے؟
 دستور کے خلاف ہے۔
 کس کس دکھ کو روئیں۔ (۱۔ محاورہ) کون کون سی مصیبت بیان کریں۔
 کس کو؟ (۱۔ تابع فعل) کس شخص کو؟ کیسے؟
 کس کی بگری کون ڈالے گھاس! (۱۔ مثل) دوسرے کی چیز کوئی نہیں
 سنبھالتا۔ سب اپنی ہی چیز کی رکھوالی کرتے ہیں۔
 کس کی بی رہی۔ (۱۔ محاورہ) عروج اقتدار ہمیشہ قائم نہیں رہتے۔
 کس کی رہی کس کی رہ جائے۔ (۱۔ محاورہ) دل کی آفتگ نکلنے
 کے موقع پر کہتے ہیں۔
 کس کی گور کون ڈھوال کرے۔ (۱۔ محاورہ) غیر کا کام کوئی نہیں کرتا۔
 کس کی مال کا ہے۔ (۱۔ محاورہ) کسی کے قابو اور اختیار کا نہیں۔
 کس کی مال کو مال کہیں؟ (۱۔ محاورہ) تیم یا غریب بچے کی مصیبت
 پر بولتے ہیں کہ ماں نہ تھی کسے مال کہتا یا کہتی اور وہ املا کرتی۔
 کس لیے۔ کس واسطے؟ (۱۔ تابع فعل) کیوں؟ کس سبب سے؟ کس
 وجہ سے؟
 کس مرض کی دوا ہے؟ کس مرض کی دوا ہو؟ کس کام کا ہے۔
 محض نما اور بے فائدہ ہے۔ کیا کام آئے گا۔ کسی کام کا نہیں۔

کس دیکھنا۔ (۱۔ محاورہ) سونے کو کوئی پرگانا۔ سونے کو تپانا۔
 کس۔ (۱۔ مثل) عورت کی شرمگاہ۔ اندام نہانی۔ عورت کی پیشاب
 کرنے کی جگہ۔
 کس۔ (۲۔ کلام استفہام) کون۔ کدما؟
 کس بات پر بھولا ہے۔؟ (۱۔ مثل) کس گھنڈ میں ہے؟ کس خیال
 میں ہے؟
 کس باخ (حکیت) کی ٹولی ہے؟ کس باخ (حکیت) کا بھولا
 ہے۔؟ (۱۔ مثل) بے حقیقت ہے۔ کیا اصل حقیقت ہے۔ کس شمار
 قطار میں ہے؟ کسی حساب میں نہیں۔ کون پوچھتا ہے؟
 کس برتے پڑتا پانی۔ (۱۔ مثل) کس سولے پریشانی مارتے ہیں۔ اس
 مقدار اور حقیقت پر غور؟
 کس بلا کا ہے۔ (۱۔ محاورہ) کس غضب کا ہے۔ تعریف کے موقع پر
 بولتے ہیں۔
 کس بلا کو پیچھے لگایا۔ (۱۔ مثل) جب کسی ضدی سے پالا پڑ جائے
 تو بولتے ہیں کہ ہم کس عذاب میں چھین گئے۔
 کس پیچھے سے سر چھوڑیں۔ (۱۔ مثل) کس سے فریاد کریں۔
 کس پر بھولے ہو؟ (۱۔ مثل) کس بات پر غور ہے۔ کونسا وسیلہ؟
 کس پوڑے پر؟ یعنی کس نوع۔ کس امید اور کس دوست کی آمد
 پر؟ کون سے بھروسے پر؟
 کس جانور کا نام ہے؟ (۱۔ محاورہ) کیا بے حقیقت چیز ہے؟
 کس جنم کے کالے لہجے میں ہیں۔ (۱۔ محاورہ) کس زمانے سے
 اطاعت اور فرمانبرداری کا بیڑا اٹھایا ہے؟
 کس جوگن سے۔ (۱۔ محاورہ) کس شان سے؟
 کس چکنی کا پسیا کھا ہے؟ (۱۔ محاورہ) کس چکی کا آٹا کھا ہے کہ
 اتنے سونے ہو گئے ہو۔
 کس حساب میں ہے۔ (۱۔ محاورہ) کون پوچھتا ہے۔ کس گنتی میں ہے۔
 کس خدا نے تپایا دکھا۔ (۱۔ محاورہ) بے پردہ یا بے وقوفی کی بات
 کرنے والے کو کہتے ہیں۔
 کس خیال میں ہے۔ (۱۔ محاورہ) کیا سوچتا ہے۔ کیوں نہیں سمجھتا۔
 کیوں بے خبر ہے؟
 کس درد کی دوا ہے۔ (۱۔ محاورہ) کس کام کا ہے۔ تجھ سے کیا امید ہے۔
 کیا کام آئے گا؟
 کس دل سے؟ (۱۔ محاورہ) کس برتے پر۔ کس ہمت پر؟
 کس دن کو (کے لیے) اٹھا رکھا ہے۔ (۱۔ محاورہ) کب کے لیے توتی
 کیا ہے۔ کہتے کیوں نہیں؟
 کس زبان سے؟ (۱۔ محاورہ) کس طرح؟ جو شخص کچھ کہے کہہ کے مگر جانے
 یا اپنے کہے کے خلاف کہے اس کی نسبت کہتے ہیں۔
 کس زبان سے بیان ہو۔ (۱۔ محاورہ) زبان اس کے بیان سے
 قاصر ہے۔

کس مُنہ سے۔ (۱۔ متعلق فعل) (۲) بات کرنے کا مُنہ نہیں۔ (۳) کوئی اعتراض کرنے کی وجہ نہیں۔ (۴) اتنی عزت نہیں کہ ایسی بڑی بات مُنہ سے کہہ بیٹھیں۔ (۵) اتنا حوصلہ اور بُرائت نہیں (۶) کس دل سے؟ (۷) کون سی بات پر۔ کس ہنر پر۔

کس مُنہ سے کوسوں۔ (۱۔ محاورہ) کونسی زبان سے بدو عاؤں کی کہہ کر کوسوں۔

کس نے کہا تھا۔ (۱۔ محاورہ) کوئی غلط کام کرنے پر اعتراض کے طور پر کہتے ہیں کہ کس نے صلاح دی تھی۔

کس زیندہ موتا دسور یا سو بیا ہے۔ (۱۔ محاورہ) کس بے خبری میں ہے؟ جوش پڑو۔ عبرت حاصل کر۔

کس جو امیں ہے۔ (۱۔ محاورہ) کیا سمجھے ہوئے ہے؟

کسا۔ (دک۔ سا) (اک۔ سا) (۲۔ صفت) (۱) کھینچا ہوا۔ (۲) تاشا ہوا۔ (۳) تنگ۔ چست۔ (۴) ان معنوں میں ہوا کہ ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ (۵) وزن میں کم۔

کسا جانا۔ (۱۔ محاورہ) کھانے کا بزمہ جو جانا۔

کسا کسا یا۔ (۱) تیار ہستند۔ کا مٹی رکھا رکھا۔ (۲) گاڑی میں جتنا جتنا یا۔ کسا ہوا۔ (۱۔ صفت) کھینچا ہوا۔ تاشا ہوا۔ تنگ۔ چست۔

کسا۔ (دکن۔ سا) (۲۔ صفت) (۱) کھینچا ہوا۔ (۲) کھینچا ہوا۔ (۳) کھینچا ہوا۔ (۴) کھینچا ہوا۔ (۵) کھینچا ہوا۔ (۶) کھینچا ہوا۔ (۷) کھینچا ہوا۔ (۸) کھینچا ہوا۔ (۹) کھینچا ہوا۔ (۱۰) کھینچا ہوا۔

کسا۔ (دکن۔ سا) (۲۔ صفت) (۱) کھینچا ہوا۔ (۲) کھینچا ہوا۔ (۳) کھینچا ہوا۔ (۴) کھینچا ہوا۔ (۵) کھینچا ہوا۔ (۶) کھینچا ہوا۔ (۷) کھینچا ہوا۔ (۸) کھینچا ہوا۔ (۹) کھینچا ہوا۔ (۱۰) کھینچا ہوا۔

کسا۔ (دکن۔ سا) (۲۔ صفت) (۱) کھینچا ہوا۔ (۲) کھینچا ہوا۔ (۳) کھینچا ہوا۔ (۴) کھینچا ہوا۔ (۵) کھینچا ہوا۔ (۶) کھینچا ہوا۔ (۷) کھینچا ہوا۔ (۸) کھینچا ہوا۔ (۹) کھینچا ہوا۔ (۱۰) کھینچا ہوا۔

کسا۔ (دکن۔ سا) (۲۔ صفت) (۱) کھینچا ہوا۔ (۲) کھینچا ہوا۔ (۳) کھینچا ہوا۔ (۴) کھینچا ہوا۔ (۵) کھینچا ہوا۔ (۶) کھینچا ہوا۔ (۷) کھینچا ہوا۔ (۸) کھینچا ہوا۔ (۹) کھینچا ہوا۔ (۱۰) کھینچا ہوا۔

کسا۔ (دکن۔ سا) (۲۔ صفت) (۱) کھینچا ہوا۔ (۲) کھینچا ہوا۔ (۳) کھینچا ہوا۔ (۴) کھینچا ہوا۔ (۵) کھینچا ہوا۔ (۶) کھینچا ہوا۔ (۷) کھینچا ہوا۔ (۸) کھینچا ہوا۔ (۹) کھینچا ہوا۔ (۱۰) کھینچا ہوا۔

کسا۔ (دکن۔ سا) (۲۔ صفت) (۱) کھینچا ہوا۔ (۲) کھینچا ہوا۔ (۳) کھینچا ہوا۔ (۴) کھینچا ہوا۔ (۵) کھینچا ہوا۔ (۶) کھینچا ہوا۔ (۷) کھینچا ہوا۔ (۸) کھینچا ہوا۔ (۹) کھینچا ہوا۔ (۱۰) کھینچا ہوا۔

کسا۔ (دکن۔ سا) (۲۔ صفت) (۱) کھینچا ہوا۔ (۲) کھینچا ہوا۔ (۳) کھینچا ہوا۔ (۴) کھینچا ہوا۔ (۵) کھینچا ہوا۔ (۶) کھینچا ہوا۔ (۷) کھینچا ہوا۔ (۸) کھینچا ہوا۔ (۹) کھینچا ہوا۔ (۱۰) کھینچا ہوا۔

کسا۔ (دکن۔ سا) (۲۔ صفت) (۱) کھینچا ہوا۔ (۲) کھینچا ہوا۔ (۳) کھینچا ہوا۔ (۴) کھینچا ہوا۔ (۵) کھینچا ہوا۔ (۶) کھینچا ہوا۔ (۷) کھینچا ہوا۔ (۸) کھینچا ہوا۔ (۹) کھینچا ہوا۔ (۱۰) کھینچا ہوا۔

کسا۔ (دکن۔ سا) (۲۔ صفت) (۱) کھینچا ہوا۔ (۲) کھینچا ہوا۔ (۳) کھینچا ہوا۔ (۴) کھینچا ہوا۔ (۵) کھینچا ہوا۔ (۶) کھینچا ہوا۔ (۷) کھینچا ہوا۔ (۸) کھینچا ہوا۔ (۹) کھینچا ہوا۔ (۱۰) کھینچا ہوا۔

کسا۔ (دکن۔ سا) (۲۔ صفت) (۱) کھینچا ہوا۔ (۲) کھینچا ہوا۔ (۳) کھینچا ہوا۔ (۴) کھینچا ہوا۔ (۵) کھینچا ہوا۔ (۶) کھینچا ہوا۔ (۷) کھینچا ہوا۔ (۸) کھینچا ہوا۔ (۹) کھینچا ہوا۔ (۱۰) کھینچا ہوا۔

کسب۔ (ع۔ ۱۔ مذ) (۱) حاصل کرنا۔ (۲) پیشہ۔ (۳) کام۔ (۴) ہنر۔ (۵) فن۔ (۶) وہ کمائی جو عورت بدکاری سے حاصل کرے۔

کسب کرنا۔ کسب کمانا۔ (۱۔ محاورہ) بدکاری سے کمائی کرنا۔ پیشہ کرنا۔ کوشش پر بیٹھنا۔

کسب کمال کنی کہ عزیز جہاں شوی۔ (د۔ بشل) کسی ہنر میں کمال حاصل کرنا کہ دنیا میں ہر روز عزیز ہو۔

کسب کسب۔ (دکن۔ بشت) (۱) اڑنا۔ (۲) مسٹا۔ (۳) پیشہ۔ (۴) پیشہ۔ (۵) پیشہ۔ (۶) پیشہ۔ (۷) پیشہ۔ (۸) پیشہ۔ (۹) پیشہ۔ (۱۰) پیشہ۔

کسب کسب۔ (دکن۔ بشت) (۱) اڑنا۔ (۲) مسٹا۔ (۳) پیشہ۔ (۴) پیشہ۔ (۵) پیشہ۔ (۶) پیشہ۔ (۷) پیشہ۔ (۸) پیشہ۔ (۹) پیشہ۔ (۱۰) پیشہ۔

کسب کسب۔ (دکن۔ بشت) (۱) اڑنا۔ (۲) مسٹا۔ (۳) پیشہ۔ (۴) پیشہ۔ (۵) پیشہ۔ (۶) پیشہ۔ (۷) پیشہ۔ (۸) پیشہ۔ (۹) پیشہ۔ (۱۰) پیشہ۔

کسب کسب۔ (دکن۔ بشت) (۱) اڑنا۔ (۲) مسٹا۔ (۳) پیشہ۔ (۴) پیشہ۔ (۵) پیشہ۔ (۶) پیشہ۔ (۷) پیشہ۔ (۸) پیشہ۔ (۹) پیشہ۔ (۱۰) پیشہ۔

کسب کسب۔ (دکن۔ بشت) (۱) اڑنا۔ (۲) مسٹا۔ (۳) پیشہ۔ (۴) پیشہ۔ (۵) پیشہ۔ (۶) پیشہ۔ (۷) پیشہ۔ (۸) پیشہ۔ (۹) پیشہ۔ (۱۰) پیشہ۔

کسب کسب۔ (دکن۔ بشت) (۱) اڑنا۔ (۲) مسٹا۔ (۳) پیشہ۔ (۴) پیشہ۔ (۵) پیشہ۔ (۶) پیشہ۔ (۷) پیشہ۔ (۸) پیشہ۔ (۹) پیشہ۔ (۱۰) پیشہ۔

کسب کسب۔ (دکن۔ بشت) (۱) اڑنا۔ (۲) مسٹا۔ (۳) پیشہ۔ (۴) پیشہ۔ (۵) پیشہ۔ (۶) پیشہ۔ (۷) پیشہ۔ (۸) پیشہ۔ (۹) پیشہ۔ (۱۰) پیشہ۔

کسب کسب۔ (دکن۔ بشت) (۱) اڑنا۔ (۲) مسٹا۔ (۳) پیشہ۔ (۴) پیشہ۔ (۵) پیشہ۔ (۶) پیشہ۔ (۷) پیشہ۔ (۸) پیشہ۔ (۹) پیشہ۔ (۱۰) پیشہ۔

کسب کسب۔ (دکن۔ بشت) (۱) اڑنا۔ (۲) مسٹا۔ (۳) پیشہ۔ (۴) پیشہ۔ (۵) پیشہ۔ (۶) پیشہ۔ (۷) پیشہ۔ (۸) پیشہ۔ (۹) پیشہ۔ (۱۰) پیشہ۔

کسب کسب۔ (دکن۔ بشت) (۱) اڑنا۔ (۲) مسٹا۔ (۳) پیشہ۔ (۴) پیشہ۔ (۵) پیشہ۔ (۶) پیشہ۔ (۷) پیشہ۔ (۸) پیشہ۔ (۹) پیشہ۔ (۱۰) پیشہ۔

کسب کسب۔ (دکن۔ بشت) (۱) اڑنا۔ (۲) مسٹا۔ (۳) پیشہ۔ (۴) پیشہ۔ (۵) پیشہ۔ (۶) پیشہ۔ (۷) پیشہ۔ (۸) پیشہ۔ (۹) پیشہ۔ (۱۰) پیشہ۔

کسب کسب۔ (دکن۔ بشت) (۱) اڑنا۔ (۲) مسٹا۔ (۳) پیشہ۔ (۴) پیشہ۔ (۵) پیشہ۔ (۶) پیشہ۔ (۷) پیشہ۔ (۸) پیشہ۔ (۹) پیشہ۔ (۱۰) پیشہ۔

کسب کسب۔ (دکن۔ بشت) (۱) اڑنا۔ (۲) مسٹا۔ (۳) پیشہ۔ (۴) پیشہ۔ (۵) پیشہ۔ (۶) پیشہ۔ (۷) پیشہ۔ (۸) پیشہ۔ (۹) پیشہ۔ (۱۰) پیشہ۔

کسب کسب۔ (دکن۔ بشت) (۱) اڑنا۔ (۲) مسٹا۔ (۳) پیشہ۔ (۴) پیشہ۔ (۵) پیشہ۔ (۶) پیشہ۔ (۷) پیشہ۔ (۸) پیشہ۔ (۹) پیشہ۔ (۱۰) پیشہ۔

کسب کسب۔ (دکن۔ بشت) (۱) اڑنا۔ (۲) مسٹا۔ (۳) پیشہ۔ (۴) پیشہ۔ (۵) پیشہ۔ (۶) پیشہ۔ (۷) پیشہ۔ (۸) پیشہ۔ (۹) پیشہ۔ (۱۰) پیشہ۔

کسب کا۔ (ک۔نکت) [۱-۵-۱۰] مشت [۱۵] ٹیس۔ ہلکا سا درو۔
 کسب آنا۔ (۱-۱) محاورہ ضرب پہنچنا۔ درو ہونا۔
 کسب اٹھنا۔ (۱-۱) محاورہ ٹیس ہونا۔ درو ہونا۔
 کسب مٹانا (نکلانا) [۱-۱] محاورہ [۱۵] تکلیف دور کرنا۔ [۲۰] بھرا ہش
 نفسانی کو پورا کرنا۔
 کسبٹ۔ (ک۔ن۔کٹ) [۱-۵-۱۰] مذ [کئی قسم کی ملی ہوئی دھات۔ کانسی۔ بھرت
 کسبٹنا۔ (ک۔ن۔سکت) [۱۵] [ہ میص] [۱۵] درو کرنا۔ دکھانا۔ [۲۰] ٹیس مارنا۔
 کم کم درو ہونا۔
 کسبگر۔ (ک۔ن۔گر) [۱-۱] مذ [مٹی کے ترن بنانے والا۔ کپہار۔ کوڑہ گر۔
 کسبٹ۔ (ک۔ن۔ک۔ن) [۱-۱] مذ [۱۵] کسبٹی۔ کابلی۔ [۲۰] تھکان۔ تھکاؤ۔
 [۳] [۱] علائقہ سبع۔ [۲۰] کمزوری۔ نا توانی۔
 کسب مند۔ (ع۔ف۔صفت) [۱۵] طیل۔ بیار۔ [۲۰] کسبت۔
 کسب مندی۔ (ع۔ف۔۱-۱) [۱۵] علائقہ۔ بیماری [۲۰] کسبتی۔
 کسب ناگ۔ (ع۔ف۔۱-۱) [۱۵] دیکھیے کسب مند [۲۰] بزدل۔
 کسبٹ۔ (ک۔ن۔ک۔ن) [۱-۵-۱۰] مذ [دیکھیے کسبٹ
 کسبٹ۔ کسبٹ۔ (ک۔ن۔ک۔ن) [۱-۵-۱۰] مذ [کڑا کڑا پھول جس سے
 شہاب نکلتا اور سرخ کپڑے رنگے جاتے ہیں۔
 کسبٹ کا آثار ہونا۔ [۱-۱] محاورہ منترا زحیمین آئے جانا۔
 کسبٹ سالا۔ (۵-۵) میص [بل کھانا۔ انگریزی لینا پہلو بولنا۔ [۲۰] گھبرانا۔ بپتوار
 ہونا۔ تنگ ہونا۔ بے چین ہونا۔ [۳] قابو سے نکلنے کی کوشش
 کرنا۔
 کسبٹا ہٹ۔ (ک۔ن۔م۔سا۔ہٹ) [۱-۵-۱۰] مشت [سبے آرانی سے بچنے
 اضطراب۔
 کسبٹا۔ (ک۔ن۔نا) [۱-۵-۱۰] مذ [کڑا] [۱۵] بیماری کا خلافت۔ [۲۰] بستر بند [۳] پنگ
 کسبٹ کی ڈوری۔ [۲۰] تھران پوش۔ [۲۰] چھینکا۔
 کسبٹا۔ (ک۔ن۔تا) [۱-۵-۱۰] میص [۱۵] کسبٹنا۔ جوتنا۔ تاننا۔ [۲۰] مضبوط اور تنگ
 کر کے ہانڈھنا۔ [۳] تلوار کو خمیدہ کرنا۔ [۲۰] سنٹا۔ [۲۰] تنگ کرنا [۲۰] کسوٹی
 پیر لگانا۔ کھرا کھوتا پرکھنا۔ [۲۰] آڑ مائش کرنا۔ چانچنا۔ [۲۰] بیروں
 کا باہم لٹا۔ [۲۰] بندوق بھڑنا [۲۰] دام بڑھانا۔ [۲۰] کم تولنا۔ [۲۰]
 مارنا۔ پھینکنا۔
 کسبٹیلے۔ (ک۔ن۔ن۔یلے) [۱-۱] مذ [ایک قسم کے پرندے۔
 کسبٹڈ۔ (ک۔ن۔سن۔نڈ) [۱-۱] مذ [سیسا۔
 کسبٹنگ۔ (ک۔ن۔سنگ) [۱-۵-۱۰] مذ [برسا تھ۔ بری صحبت۔
 کسبٹا۔ (ک۔ن۔وا۔نا) [۱-۵-۱۰] میص [کسبٹا کا متعدی متعدی۔
 کسبٹا۔ (ک۔ن۔وا۔نا) [۱-۵-۱۰] میص [کسبٹا کا متعدی متعدی۔
 کسبٹا۔ (۱-۱) [۱-۵-۱۰] مذ [کسبٹ کی اجرت۔
 کسبٹ۔ (ک۔ن۔و۔ٹ) [۱-۵-۱۰] مذ [لباس۔ پوشاک۔
 کسبٹ۔ (ک۔ن۔و۔ٹ) [۱-۵-۱۰] مذ [وہ پتھر جس پر سونے کا کس دیکھتے
 ہیں۔ [۲۰] پرکھ۔ جاچ۔ امتحان۔

کسبٹ کا۔ (ک۔ن۔ک۔ن) [۱-۵-۱۰] مذ [کسبٹ کا۔
 کسبٹ مفرود۔ (۱-۱) کسبٹ کا شمار کنندہ اور نسبت نام صحیح عدو ہوں۔
 کسبٹ کی۔ (۱-۱) کسبٹ کا۔
 کسبٹ کتف۔ (۱-۱) کسبٹ کے شمار کنندہ یا نسب ناموں میں کوئی عدو
 مکتب یا کسبٹ مضاف ہو۔
 کسبٹ نس۔ (ع۔۱-۱) [۱-۵-۱۰] مذ [نس کا توڑنا۔
 کسبٹ نس۔ (ع۔ف۔۱-۱) [۱-۵-۱۰] مذ [اپنے آپ کو کم رتبہ ظاہر کرنا یا جبری
 انکاری۔
 کسبٹ واجب۔ (ع۔۱-۱) [۱-۵-۱۰] مذ [وہ کسبٹ کا شمار کنندہ نسبت نام سے
 چھوٹا ہو۔
 کسبٹ۔ (ک۔ن۔ن۔ن۔ن) [۱-۵-۱۰] مذ [نفس کی۔ [۲۰] بچوں کی بڑھی۔ [۲۰]
 گھانا۔ نقصان۔ (یہ لفظ عربی کسبٹ سے بنا گیا ہے)
 کسبٹ اٹھا رکھنا۔ (۱-۱) محاورہ کسی باقی رکھنا۔
 کسبٹ باقی نہ رکھنا۔ (۱-۱) محاورہ [۱۵] ذرا کوتاہی اور کمی نہ کرنا۔ [۲۰] کوئی
 بات باقی نہ چھوڑنا۔
 کسبٹ بھڑنا۔ (۱-۱) محاورہ [۱۵] نقصان پورا کرنا۔ خسارہ بھڑنا۔
 کمی پوری کرنا۔
 کسبٹ پڑنا۔ (۱-۱) محاورہ [۱۵] واقع ہونا۔
 کسبٹ دینا۔ (۱-۱) محاورہ [۱۵] نقصان پہنچانا۔ خسارہ دینا۔
 کسبٹ رہ جانا (رہنا)۔ (۱-۱) محاورہ [۱۵] گھانا رہنا۔ [۲۰] کمی رہنا۔ [۳]
 نقص رہنا۔
 کسبٹ شان۔ (۱-۱) [۱-۵-۱۰] مذ [خلافت شان۔ وہ بات جس سے آدمی کی
 عزت و آبرو میں فرق آجائے۔
 کسبٹ کھانا۔ (۱-۱) محاورہ [۱۵] نقصان اٹھانا۔ خسارہ بھڑنا۔ پتے سے دینا۔
 کسبٹ کال دینا (نکلانا)۔ (۱-۱) محاورہ [۱۵] کسی پوری کرنا۔ خسارہ پورا
 کرنا۔ [۲۰] بدل لینا۔ ایشام لینا۔
 کسبٹ ہونا۔ (۱-۱) محاورہ [۱۵] کھی ہونا۔ تھڑنا۔ [۲۰] خسارہ ہونا [۲۰] بچتے
 کو بڑھی ہونا۔ [۲۰] کوتاہی ہونا۔
 کسبٹ۔ (ک۔ن۔را) [۱-۵-۱۰] مذ [۱۵] کو شیر و ان عادل۔ [۲۰] شاہان
 جم کے ہر بادشاہ کا لقب۔
 کسبٹ۔ (ک۔ن۔رات) [۱-۵-۱۰] مذ [وہ قوم جو رخصت وغیرہ
 سے کٹ کر بچتے ہیں ڈالی جاتی ہیں۔
 کسبٹ۔ (ک۔ن۔رشت) [۱-۵-۱۰] مذ [درزش۔ ریاضت۔ [۲۰]
 مشق۔ جہارت۔
 کسبٹ کرنا۔ (۱-۱) محاورہ [۱۵] درزش کرنا۔ ریاضت کرنا۔ پہلوانی
 کرنا۔ [۲۰] مشق کرنا۔
 کسبٹ۔ (ک۔ن۔ر۔تی) [۱-۵-۱۰] مذ [کسبٹ یا درزش کیا ہوا۔
 [۲۰] کسبٹ کسے والا۔ ورزشی۔
 کسبٹ۔ (ک۔ن۔رہ) [۱-۵-۱۰] مذ [زیر کی حرکت۔

کسوٹی پر رکھنا۔ کسوٹی پر لگانا۔ کسوٹی پر کسنا۔ (۱- محاورہ) (۱) کسوٹی پر تھمس کر سونے چاندی کا کھوٹا کھرا پھٹنا۔ (۲) آزمائنا۔ جانچنا۔ کسوٹی۔ دکھ۔ (شور) (ع-۱- مٹھ) کسوٹی کس کرنا۔ اجزا بیکو سے۔ کسوٹی (عشاریہ)۔ (ع-۱- مٹھ) وہ کسوٹی جن کا نسب نادر یا دس کی کوئی قوت رکھتا ہو۔ کسوٹی عام۔ (ع-۱- مٹھ) وہ کسوٹی جن کا نسب ناکھا جائے۔ کسوٹی۔ (ک۔ مٹھ) (ع-۱- مٹھ) چاندی اور زمین اور سورج کے درمیان اگر سورج پر اپنا سایہ ڈالنا۔ کسوٹی۔ (ک۔ مٹھ) [اے۔ صفت] کسوٹی کا (گھوٹرا) بھینگا۔ (۲) چابک کسوٹی۔ (ک۔ مٹھ) (جی) [ع-۱- مٹھ] ایک درخت کا نام۔ کسوٹی۔ (ک۔ مٹھ) (بی) [ع-۱- مٹھ] (۱) چھوٹا پھاوٹرا۔ پیچھے (۲) دو قدم کے برابر فاصلے کا ایک پیمانہ۔ کسوٹی۔ (ک۔ مٹھ) [ع-۱- مٹھ] کوئی چیز۔ کوئی آدمی۔ کوئی بات (۲) نامعلوم الاسم (۳) غلام شخص معلوم (۴) وہ شخص جس کا نام نہ لیں قرینے سے اس کی طرف اشارہ کریں۔ شعر: کبھی رقیب کبھی عاشق اور کبھی مشرق کی طرف کسی سے اشارہ کرتے ہیں۔ کسوٹی بات سے ہاتھ اٹھانا۔ (۱- محاورہ) کسی بات یا کام کو چھوڑ دینا۔ کسی بات سے باز آنا۔ دست بردار ہونا۔ ناامید ہونا۔ مایوس ہونا۔ ترک کر دینا۔ کسی بات کی کمی نہیں۔ (۱- محاورہ) ہر چیز موجود ہے۔ امیر ہیں۔ کسی بات کے لالے پڑنا۔ (۱- محاورہ) کسی بات کا دشوار ہونا۔ (۲) کسی بات کا بہت خواہش مند ہونا مگر اسے پورا نہ کر سکتا۔ (۳) مایوسی ہونا۔ ناامیدی ہونا۔ کسی پر ادھار کھلے ہیں۔ (۱- محاورہ) کسی ارادے پر مٹے ہوئے ہیں۔ کسی پر بھولے پھرنا۔ (۱- محاورہ) کسی کی امید یا حمایت پر اتلائے پھرنا۔ کسی پر تکیہ کرنا۔ (۱- محاورہ) کسی پر بھروسہ اور اعتماد کرنا۔ کسی پر حیاں جانا۔ کسی پر حیاں (دوم) دینا۔ (۱- محاورہ) کسی پر بافتق و مشور ہونا۔ کسی پر دیوانہ ہونا۔ (۱- محاورہ) کسی کے عشق میں مینون و سودائی ہونا۔ کسی پر فریفتہ ہونا۔ کسی پر ہاتھ رکھنا۔ (۱- محاورہ) نسق دینا۔ کسی کا حامی و مددگار ہونا۔ کسی پر ہاتھ صاف کرنا۔ (۱- محاورہ) (۱) دھوکہ دینا۔ نقصان پہنچانا۔ کسی پہلو (۱- تابع فعل) کسی ڈھب۔ کسی طریقہ سے کسی طرح سے۔ (اس کے بعد سے "لانا خلاف فصاحت ہے) کسی چیز پر آنکھ نہ چھڑھنا۔ (۱- محاورہ) (۱) کمال استغناء سے کسی چیز کو خاطر میں نہ لانا۔ (۲) نہایت خوبصورت ہونا۔ (۳) کسی چیز کی آب و تاب اور چمک و دک کے باعث اس پر نظر نہ پھر

سکتا۔ کسی چیز پر لات مارنا۔ (مٹھوگنا) (۱- محاورہ) کسی چیز کو ٹھکانا یا خاطر میں نہ لانا۔ کسی چیز پر نہ مٹھوگنا۔ (۱- محاورہ) خاطر میں نہ لانا۔ کسی چیز سے نہایت اکراہ اور نفرت ظاہر کرنا۔ کسی چیز پر ہاتھ نہ رکھنے دینا۔ (۱- محاورہ) (۱) فروخت کی اشیاء میں نہایت بے پروائی اور ترش روی سے کام لینا۔ (۲) گرانی کے باعث کسی چیز کو پھینکنے نہ دینا۔ کسی چیز کا وصول اٹھانا۔ (۱- محاورہ) کسی چیز کو خاک میں ملانا۔ ریزہ ریزہ کرنا۔ کسی چیز کو رو بیٹھنا۔ (۱- محاورہ) (۱) کسی چیز سے ناامید اور مایوس ہو جانا۔ (۲) صبر کر بیٹھنا۔ (۳) ماتم کر بیٹھنا۔ کسی سے ٹکر لینا۔ (۱- محاورہ) کسی سے متبادل کرنا۔ کسی کے مقابل ہونا۔ کسی سے دل لگانا۔ (۱- محاورہ) کسی سے دوستی کرنا۔ کسی سے سائی کسی سے بدھائی۔ (۱- مٹھ) (جھوٹی خاطر داری۔ ہر ایک سے وعدہ وعید۔ کسی طرح۔ کسی طور کسی عنوان۔ (۱- تابع فعل) دیکھیے کسی پہلو۔ کسی قابل نہ رکھنا۔ (۱- محاورہ) بیکار کر دینا۔ مخلص کر دینا۔ کسی قدر۔ (۱- تابع فعل) (۱) ڈراسا۔ کچھ قدر سے۔ قلیل۔ (۲) بہت کچھ۔ بہت سا۔ کسی کا۔ (۱- تابع فعل) (۱) کسی شخص کا (۲) شخص معلوم کا۔ (۳) (مجازاً) معنون۔ دلربا کا۔ (۴) دوسرے کا۔ غیر کا۔ (۵) اپنا۔ اپنی ذات کا کسی کا پاس ہونا۔ (۱- محاورہ) لحاظ ہونا۔ خیال ہونا۔ خیال رکھنا۔ کسی کا دیا نہیں کھاتا۔ (۱- مٹھ)۔ (۱) کٹا پتہ کسی کا محتاج نہیں۔ دست نہ کرتے ہیں۔ کسی کا کچھ نہیں جانا۔ (۱- مٹھ) کسی کا کچھ نقصان ہونا۔ کسی کا کچھ (دس) نہیں چلتا۔ (۱- محاورہ) کسی کی پیش نہیں جاتی۔ قابو اور اختیار سے باہر ہے۔ کسی کا کلمہ بھڑنا (پڑھنا)۔ (۱- محاورہ) کسی کا نہایت مطیع و معتمد ہونا۔ کسی پر ایمان لانا۔ (۲) کسی کو ہر وقت یاد کرنا۔ کسی کا کیا ہے۔ (۱- محاورہ) کسی کا کیا اجارہ ہے۔ کسی کا گھر چلے کوئی تالپے۔ (۱- مٹھ) کسی کا نقصان ہو اور کوئی خوشی مناسبتے۔ ایک کی معیبت دوسرے کی خوشی۔ کسی کام کا نہ ہونا۔ (۱- محاورہ) محض نکتا اور بے کار ہونا۔ کسی کا منہ تھکنا۔ (۱- محاورہ) منہ سے کسی بات کے پھینکنے کا آرزو مند ہونا۔ کسی بات کا مستحق ہونا۔ (۲) کچھ حاصل کرنے کی امید ہونا۔ (۳) مدد کے لیے عاجزانہ نظر ڈالنا۔ کسی کا نقشہ چھنا۔ (۱- محاورہ) کسی کا قبضہ ہونا۔ دخل ہونا۔ بات بننا۔ کسی کا ہاتھ چلے کسی کی زبان چلے۔ (۱- مٹھ) (۱) ایک شخص مازنا

ہے تو دوسرا زبان سے گالی دے کر اپنا دل ٹھنڈا کر لیتا ہے۔ (۲۰)
 پڑبانی کا بیجر مار کھانا اور ستانے کا بیجر کو سنے سننا ہے۔ (۳۰) ہر
 شخص اپنے مفرد اور امکان کے مطابق انتقام ضرور لیتا ہے۔
 کسی کا ہور سنا۔ (۱- محاورہ) کسی کا مبیغ و فرماں بردار ہوجانا۔
 کسی کروٹ کل (دھین) نہ آنا۔ (۱- محاورہ) کسی پہلو آرام نہ آنا۔
 کسی طور فرار نہ آنا۔
 کسی کو آنکھ اٹھا کر نہ دیکھنا۔ (۱- محاورہ) (۱) نہایت بے پروائی
 کا اظہار کرنا۔ (۲) نہایت شرم والا ہونا۔ (۳) نہایت مغرور ہونا۔
 کسی کو اپنا کر رکھو یا کسی کے مور ہو۔ (۱- مقولہ) یا تو خود کسی کی
 مشابہت اختیار کر لو یا کسی کو اپنا مبیغ و فرماں بردار بنا لو۔
 کسی کو اڑانا۔ (۱- محاورہ) کسی کی بات کو نہی میں مال دینا۔
 کسی کو بیگن بیالے کسی کو ان پیچ۔ (۱- مثل) بعض اوقات ایک
 ہی چیز کسی کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتی ہے اور دوسرے کے
 لیے نقصان رساں۔
 کسی کو خیال میں نہ لانا۔ (۱- محاورہ) کسی کی پرواہ نہ کرنا کسی
 کو کچھ نہ سمجھنا۔ کسی کو حقارت کی نظر سے دیکھنا۔ کسی کی طرت توجہ
 نہ کرنا۔ بیچ سمجھنا۔
 کسی کو کسار پٹی ہے۔ (۱- محاورہ) کسی کو کیا غرض ہے۔
 کسی کی آنگ میں پڑنا۔ (۱- محاورہ) (۱) دوسرے کی مصیبت
 اپنے سر لینا۔ ہمدردی کرنا۔ تکلیف کے وقت ساتھ دینا۔
 کسی کی آنکھیں دیکھنا۔ (۱- محاورہ) (۱) سبق لینا۔ سیکھنا۔ (۲)
 صحبت اختیار کرنا۔
 کسی کی آئی مجھ کو آجاتے۔ (۱- کلام بد دعا) دوسرے کی موت
 مجھے آجاتے۔ نہایت غصے یا تکلیف کی حالت میں اپنے آپ کو
 بد دعا دینے کا فقرہ ہے۔
 کسی کی بات پر جانا۔ (۱- محاورہ) کسی پر اعتبار کرنا۔ کسی بات
 کا خیال رکھنا۔
 کسی کی جان سے دُور۔ (۱- دُعا) عزتیں مَرودہ یا میت کا ذکر
 کرتے وقت یہ فقرہ کہتی ہیں تاکہ اس کا اثر دُور نہ پہنچے۔
 کسی کی خبر لینا۔ (۱- محاورہ) (۱) کسی کی خبر گیری کرنا۔ مدد کرنا (۲)
 مارنا۔ پٹنا۔ سیدھا کرنا۔ (۳) لعنت طاعت کرنا۔ (۴) کسی کی
 بیار پرسی کو جانا۔
 کسی کی دھول اڑا دینا۔ (۱- محاورہ) کسی کو ملیا میٹ یا برباد
 کر دینا۔
 کسی کی راہ میں کانٹے بچھانا۔ (۱- محاورہ) کسی کے لیے تکلیف کا
 سامان پیدا کر دینا۔
 کسی کی رُوح پیاسی تھنی۔ (۱- مثل) جب پانی کا بھرا جوا گھڑا
 یا مڈکا انخود ڈوٹ جاتے تو یہ فقرہ زبان پر لاتے ہیں۔
 کسی کی کاٹ کرنا۔ (۱- محاورہ) بُرائی کرنا۔ اثر زائل کرنا۔

کسی کی کسی کو خبر نہیں۔ (۱- مثل) کسی جماعت میں بے ہوشی اور غفلت
 کا عالم ہونے پر بولتے ہیں۔
 کسی کی مٹی خراب ہونا۔ (۱- محاورہ) کسی کی نہایت بے قدری ہونا۔ کمال
 ذلت اور خواری پیش آنا۔
 کسی کی نہیں ٹھنڈا۔ (۱- محاورہ) کسی کی بات نہیں مانتا۔ بے پرواہ ہے۔
 کسی کے آگے بانی بھرنا۔ (۱- محاورہ) عاجزی ظاہر کرنا۔ مبیغ ہونا۔
 کسی کے آگے کان پھڑنا۔ (۱- محاورہ) کسی کو اپنا اُستنا ماننا۔ سب سے
 بڑھ کر تسلیم کرنا۔ جگت اُستنا جانا۔ سروار ماننا۔
 کسی کے آگے (سامنے) چلنا۔ (۱- محاورہ) (۱) نہایت رعب
 چھانا۔ رعب غالب ہونا۔ (۲) بات نہ چلنا۔ اثر نہ ہونا۔ (۳) لوہو دست
 کے آگے پیش نہ چلنا۔
 کسی کے پالے پڑنا۔ (۱- محاورہ) (۱) کسی کے قابو میں آنا۔ (۲) کسی سے
 واسطہ پڑنا۔
 کسی کے ٹکڑوں میں پڑنا۔ (۱- محاورہ) دوسرے کی روٹیاں کھانا۔ تحفت
 کی روٹیاں توڑنا۔ دوسرے کے گھر کھانا۔
 کسی کے حال پر پرونا آنا۔ (۱- محاورہ) کسی پر رحم آنا یا افسوس ہونا۔
 کسی کے حق میں کانٹے بولنا۔ کسی کے لیے بُرائی کرنا۔ کسی کی طوت
 سے بدگمان کرنا۔
 کسی کے خون کے پیاسے ہونا۔ (۱- محاورہ) کسی کی جان کا دشمن ہونا۔
 کسی کے دل پہ قتل ہونا۔ کسی کی جان کا لاگو ہونا۔
 کسی کے سر ہونا۔ (۱- محاورہ) (۱) کسی کے پیچھے پڑنا۔ (۲) کسی کے
 فتنے پڑنا۔
 کسی کے کھاتے کسی کے گیت گائے۔ (۱- مثل) فائدہ کسی سے
 اُٹھائے اور تعویف کسی کی کرے۔
 کسی کے کیے میں گھی گھڑے۔ کسی کے کیے میں پتھر پڑے
 (۱- مثل) ایک سی کام اگر دو تہمت والا کرنے تو اس سے
 بیک نام ہو جاتا ہے۔ وہی کام دوسرا ہتہمت فریب کسے تو اس
 پر انگلیاں اٹھتی ہیں۔
 کسی کے لئے لینا۔ (۱- محاورہ) (۱) بحث و گفتگو میں عاجز اور ناکام
 معقول کرنا۔ (۲) تنگ کرنا۔ آڑے ہاتھوں لینا۔
 کسی کے لینے دینے میں نہ ہونا۔ (۱- محاورہ) کسی سے غرض اور
 سروکار نہ ہونا۔
 کسی کے مُنہ پر پڑھنا۔ (۱- محاورہ) (۱) برابری کرنا۔ متقابل ہونا۔ (۲)
 قُرب حاصل کرنا۔
 کسی کے مُنہ لگنا۔ (۱- محاورہ) (۱) کسی کی باتوں میں برابری کرنا۔ بہکام
 ہونا۔ (۲) قُرب حاصل ہونا۔ اخلاص سے باہم ہونا۔
 کسی کے نام کا کڈنا۔ (۱- محاورہ) کسی کو سوائے نام کرنا۔
 کسی لائق ہونا۔ (۱- محاورہ) (۱) کسی قابل ہونا۔ (۲) کسی ہتہمت یا لیاقت
 میں کابل ہونا۔

کسی مرض کی دوا نہیں۔ (۱- محاورہ) بے کار ہے۔ بے فائدہ ہے۔
 کسی نہ کسی۔ (۱- تین فعل) کوئی نہ کوئی۔ ایک نہ ایک۔
 کسی نہ کسی طرح۔ (۱- تین فعل) جس طرح بھی ہو سکا۔ (۲) بے بس یا
 بے حال ہے۔
 کسی نے پایا دودھ کسی نے پیا پانی سب کو ایک ہی گنوائی۔
 (۱- مثل) امیر اور غریب۔ بے بس اور بے سب کی گذر جاتی ہے۔
 کسی وقت کام آئے گا۔ (۱- محاورہ) ضرورت کے وقت کام
 آئے گا۔

کئے۔ (ک سے) (ت) کوئی آدمی۔ کوئی شخص۔
 کے باشد۔ کوئی جو۔

کئے۔ (ک سے) (ہ) کلمہ انتہام [کس شخص کو؟ کون سے آدمی کو؟
 کسے و ماخ؟ (۱- محاورہ) کسی کو اتنی برداشت نہیں۔
 کیے کہتے ہیں۔ (۱- محاورہ) کیا وقعت رکھتا ہے؟
 کیسا جانا۔ کیسا مانا۔ کس۔ یا۔ مانا۔ کس۔ یا۔ مانا، (۲) (ہ) میں [کیسا ہو
 مانا۔ کساؤ آجانا۔

کیسیرا۔ (ک سے) (ا) (۱- مذ) ٹھیکڑا۔ تانے پیتل اور کانسی کے
 برتن بنانے اور بیچنے والا۔

کیسیرن۔ (ک سے) (زن) (۱- مذ) کیسیرا کی بیوی۔
 کیسیرو۔ (ک سے) (رؤ) (۱- مذ) ایک قسم کی گھاس جس کی چوڑی
 اور بیٹوں رکھتے ہیں۔

کیسیرہٹا۔ (ک سے) (ہٹ) (۱- مذ) کیسیروں کا بازار۔ وہ بازار
 جہاں تانے۔ پیتل اور کانسی کے برتن فروخت ہوتے ہیں۔
 کیسیس۔ (ک سے) (سین) (۱- مذ) ایک قسم کی پتھر کی جڑ ہے اور گندھک
 کے پونجے سے تیار ہوتی ہے۔

کیسیلا۔ (ک سے) (سی) (۱- مذ) (۱- صفت) کساؤ دار۔ بدمزہ۔ ترش جو زبان
 اور طبع کو کچلے۔

کیسیلا پن۔ کساؤ کیاؤ۔

ک-ش

ککش۔ (ت) (صفت) (۱) کھینچنے والا۔ (۲) برداشت کرنے والا دمکرتا
 ککش میں مستعمل ہے جیسے محنت کش۔ (۳) [ر] (مذ) سٹھ کا دم۔
 ککش کش۔ (ت) (۱- صفت) (۱) کھینچا تانی۔ ککش کش۔ کشیدگی۔ رکاوٹ۔
 (۲) [ر] [ا] کھیلو۔ منہ (۳) وقت۔ دشواری۔ (۴) لڑائی جھگڑا۔
 نکار۔

کش۔ (ت) (صفت) تفل کرنے والا۔ کشتن مصدر کا صیغہ امر جو اسم کے بعد
 آکر اسے اہم نامل بنا دیتا ہے۔ جیسے جانشیم کش۔ محسن کش۔
 کش۔ (ک سے) (ش) (ت) (صفت) کھولنے یا پل کرنے والا۔ کشیدن مصدر

کا صیغہ امر۔ (مربکات میں مستعمل ہے جیسے مشکل کشا)
 کشاد۔ (ک سے) (شاد) (ت) (صفت) (۱) کشادہ کا صفت۔ فراخ (مذ)۔ (۲)
 صل۔ (۳) کامیابی۔ فتح۔ (۴) خوشی۔
 کشادگی۔ (ک سے) (شاد) (گی) (ت) (۱- صفت) [مذ] فراخی۔ وسعت۔ چھڑائی۔
 پھیلاؤ۔

کشادہ۔ (ک سے) (شاد) (وہ) (ت) (صفت) (۱) کھلا ہوا۔ (۲) فراخ۔ (۳)۔ (۴)۔
 چھڑا۔ پھیلا ہوا۔

کشادہ پیشانی۔ (ک سے) (شاد) (رؤ) (ت) (صفت) چوڑے اور کھلے ہونے
 والے والا۔ خندہ پیشانی۔ ہنس مکھ۔ خوش اخلاق۔

کشادہ دل۔ (ت) (صفت) (صفت) سخی۔ فیاض۔ عالی حوصلہ۔ فراخ دل۔
 کشادہ روی۔ (ت) (۱- صفت) (۲) خوش طبی۔ خوش اخلاقی۔

کشادہ کشادہ۔ (ت) (صفت) (۱) دور۔ فرق فرق سے۔
 کشادہ کھٹ۔ (ت) (صفت) (صفت) سخی۔ جہاں مرو۔

کشاف۔ (ک کش) (شافت) (ت) (صفت) (۱) صفت انہایت کھولنے والا۔ بالکل
 پردہ اٹھا دینے والا۔

کشکش۔ (ک سے) (شاد) (کش) (ت) (۱- صفت) (۲) کھینچا تانی۔ (۳) (۴) دکھ دھکا
 (۳) نکار۔ چھڑپ۔ (۴) کھینچنا چھٹی۔

کشکش سے کھینچنا۔ (۱- محاورہ) تکلیف یا فکر سے نجات پانا۔
 کشکش کشاں۔ (ت) (صفت) (صفت) کھینچنے ہونے یا کھینچنے کی
 کشکش کش۔ (ک سے) (شاد) (کش) (ت) (۱- صفت) کھینچنے کرنے والا۔ دہقان۔
 کسان۔ مزارع۔

کشکش کش۔ (ک سے) (شاد) (کش) (ت) (۱- صفت) (۲) کھینچنے کرنے والا۔ دہقان۔
 کسان۔ مزارع۔

کشکش کش۔ (ک سے) (شاد) (کش) (ت) (۱- صفت) (۲) کھینچنے کرنے والا۔ دہقان۔
 کسان۔ مزارع۔

کشکش کش۔ (ک سے) (شاد) (کش) (ت) (۱- صفت) (۲) کھینچنے کرنے والا۔ دہقان۔
 کسان۔ مزارع۔

کشکش کش۔ (ک سے) (شاد) (کش) (ت) (۱- صفت) (۲) کھینچنے کرنے والا۔ دہقان۔
 کسان۔ مزارع۔

کشکش کش۔ (ک سے) (شاد) (کش) (ت) (۱- صفت) (۲) کھینچنے کرنے والا۔ دہقان۔
 کسان۔ مزارع۔

کشکش کش۔ (ک سے) (شاد) (کش) (ت) (۱- صفت) (۲) کھینچنے کرنے والا۔ دہقان۔
 کسان۔ مزارع۔

کشکش کش۔ (ک سے) (شاد) (کش) (ت) (۱- صفت) (۲) کھینچنے کرنے والا۔ دہقان۔
 کسان۔ مزارع۔

کشکش کش۔ (ک سے) (شاد) (کش) (ت) (۱- صفت) (۲) کھینچنے کرنے والا۔ دہقان۔
 کسان۔ مزارع۔

کشکش کش۔ (ک سے) (شاد) (کش) (ت) (۱- صفت) (۲) کھینچنے کرنے والا۔ دہقان۔
 کسان۔ مزارع۔

کشکش کش۔ (ک سے) (شاد) (کش) (ت) (۱- صفت) (۲) کھینچنے کرنے والا۔ دہقان۔
 کسان۔ مزارع۔

سے کام نہ لینا۔ (۲) مات ہونا۔

کشتگان - رکشت۔ گان (۱) ف۔ ۱۔ مذ [کشتہ کی جمع۔ (۱) منقولین۔ (۲) عشاق کشتا۔ رکش۔ تم۔ کشت۔ تا] (۱) مذ [کشم کشتا ہونا۔ لپٹ جانا۔ کشتی۔ رکش۔ ت۔ بی (۱) ف۔ صفت (۲) گردن مارنے کے قابل۔ گردن۔ روئی۔

کشتہ - رکش۔ ت۔ (۱) ف۔ صفت (۲) مقتول۔ قتل کیا ہوا۔ (۲) مذ [لاہ۔ جسم مردہ۔ (۳) عاشق۔ منتون۔ (۴) ماری ہوئی دعوت۔ کشتہ کرنا۔ (۱) محاورہ (۲) قتل کرنا۔ شہید کرنا۔ (۳) دعوت کا چھوٹنا۔ اکیر بنانا۔ (۴) تباہ و برباد کرنا۔

کشتہ ہونا۔ (۱) محاورہ (۲) قتل ہونا۔ فوج ہونا۔ (۳) عاشق ہونا۔ کسی پر مرنا۔ (۴) دعوت کا آگ میں چھنک کر اکیر ہونا۔ کشتوں کے کشتے لگ جانا۔ (۱) محاورہ (۲) لافوں کے ڈھیر لگ جانا۔ بہت خون خرابا ہونا۔

کشتی - رکش۔ تی (۱) ف۔ ۱۔ مذ [ناؤ۔ بڑی۔ سفینہ۔ ڈونگا۔ (۲) ایک قسم کی پیالی۔ (۳) [آرٹا۔ سیسی۔ لمبا حوران۔ کشتی بادیہ۔ (۱) ف۔ ۱۔ مذ] [شراب کا پیالہ جو کشتی کی شکل میں ہوتا ہے۔

کشتی بان - (۱) ف۔ ۱۔ مذ [ناح۔ ماٹھی۔ کشتی - (۲) رکش۔ تی (۱) ف۔ ۱۔ مذ] [زور آزمائی۔ دو پہلوؤں کا باہم لگنے لگتا ہونا۔

کشتی برا کر رہنا۔ (۱) محاورہ (۲) ایک دوسرے پر غالب نہ آنا۔ ہار جیت کا فیصلہ نہ ہونا۔ کشتی جیتنا۔ (۱) محاورہ کشتی مارنا۔ پچھاڑنا۔ کشتی کرنا۔ (۱) محاورہ (۲) زور آزمائی کرنا۔ لانا جھگڑنا۔ (۳) دوزخ کرنا۔ پہلوانی کرنا۔

کشتی لڑنا۔ (۱) محاورہ (۲) باہم لڑنا۔ مقابلہ کرنا۔ (۳) زور آزمائی کرنا۔ آپس میں کھٹ جانا۔ کشت - (۱) ف۔ ۱۔ مذ (۲) ڈکھ۔ سختی۔ (۳) وقت۔ (۴) تنگی۔ مصیبت تکلیف۔ مذاہب۔ پٹنا۔

کشت اٹھانا۔ کشت بھوگنا۔ (۱) محاورہ (۲) مصیبت اٹھانا۔ تکلیف چھیننا۔ کشتا - (۱) رکش۔ تا (۲) [آر۔ ۱۔ مذ] (۳) لڑو آلو (۴) شفتا لو۔ (۵) ایک قسم کا چھوٹا اور لڑو آلو۔

کشت - (۱) رکش۔ ش (۲) ف۔ ۱۔ مذ [کشدگی۔ کھنچاؤ۔ جڈ۔ (۳) دلربائی۔ ناز و کوشش۔ (۴) رُجمان۔ رُجبت۔ (۵) [آر] دیر۔ توقف۔ (۶) مصیبت۔ سختی۔ (۷) شکر۔ رنجی۔ انقباض۔ (۸) حروف کی کشت، جیسے کہ کشت گ کی کشت وغیرہ۔ کشت [انصال۔ (۱) ف۔ ۱۔ مذ] [علم طبیعات میں اجسام

کے اس پاس کے اجزا کو آپس میں ملا کر رکھنے کی قوت۔ کشت انا سبب شعری - (۱) ف۔ ۱۔ مذ] [مٹ] وہ قوت جس سے مانعات اپنی سطح ہموار سے اوپر پڑھ جاتے ہیں۔ کشت شقی - (۱) ف۔ ۱۔ مذ] [مٹ] وہ کشت جس سے اجسام زمین کے مرکز کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ کشت زمین - (۱) ف۔ ۱۔ مذ] [مٹ] زمین کی کشت جو ہر شے کو مرکز زمین کی طرف مائل کرتی ہے۔

کشت گہر بانی - (۱) ف۔ ۱۔ مذ] [مٹ] وہ قوت جس کے ذریعے سے گہر باغوند، گھاس کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ کشت کیمیائی - (۱) ف۔ ۱۔ مذ] [مٹ] وہ قوت جس کے اثر سے دو مختلف چیزیں ہل کر ایک نئی چیز بن جاتی ہے۔ کشت مقناطیسی - (۱) ف۔ ۱۔ مذ] [مٹ] پتھر کی وہ قوت جس کے ذریعے سے وہ لوہے اور پارے کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔

کشتکش - (۱) ف۔ ۱۔ مذ] [مٹ] کھینچنا۔ کشتکش میں پڑنا۔ (۱) محاورہ (۲) سوچ میں پڑنا۔ منحصر میں پڑنا۔ کشت - (۱) ف۔ ۱۔ مذ] [مٹ] کھونا۔ نظر کرنا۔ پردہ اٹھانا۔ (۲) عیب کی باتوں کا اظہار۔ انکشاف۔ الہام۔ انقار۔

کشت عجیب - (۱) ف۔ ۱۔ مذ] [مٹ] پردہ اٹھ جانا۔ معرقت حاصل کرنا۔ کشت قبور - (۱) ف۔ ۱۔ مذ] [مٹ] صوفیوں کا وہ مرتبہ جس میں انہیں مردگی کی قبر سے حالات معلوم ہوجاتے ہیں۔ کشت و کمالات - (۱) ف۔ ۱۔ مذ] [مٹ] اعجاز و تصرف بخسرت عادت۔

کشتی - (۱) رکش۔ تی (۲) ف۔ ۱۔ مذ] [مٹ] کشت سے منسوب۔ کشتول - (۱) رکش۔ بول (۲) ف۔ ۱۔ مذ] [مٹ] کچھول۔ فقیروں کا پیالہ۔ بھیک کا ٹھیکرا۔ زنبیل۔ کشتل - (۱) رکش۔ ل (۲) ف۔ ۱۔ مذ] [مٹ] عافیت۔ نیرتیت۔ صحت۔ تندرستی۔ کشتش - (۱) رکش۔ ش (۲) ف۔ ۱۔ مذ] [مٹ] ایک قسم کے چھوٹے سونے کے ٹکڑے۔

کشتش کی طرح تنکے موجود - (۱) ف۔ ۱۔ مذ] [مٹ] عورتیں اس جگہ بولتی ہیں۔ جہاں کسی ٹکڑے کی ذات میں کوئی نقص ہو۔ کشتشی - (۱) رکش۔ شی (۲) ف۔ ۱۔ مذ] [مٹ] کشتش سے منسوب۔ کشتش کے رنگ کا۔

کشمیر - (۱) رکش۔ می (۲) ف۔ ۱۔ مذ] [مٹ] کشمیر کا بنا ہوا آونی کپڑا۔ کشمیر - (۱) رکش۔ می (۲) ف۔ ۱۔ مذ] [مٹ] کشمیر سے منسوب۔ (۳) [مٹ] [مٹ] کشمیر کی زبان۔ کشش - (۱) رکش۔ ش (۲) ف۔ ۱۔ مذ] [مٹ] [مٹ] کشش کی زبان۔ کشش - (۱) رکش۔ ش (۲) ف۔ ۱۔ مذ] [مٹ] [مٹ] کشش کی زبان۔ کشش - (۱) رکش۔ ش (۲) ف۔ ۱۔ مذ] [مٹ] [مٹ] کشش کی زبان۔

کشدہ - (۱) ف۔ ۱۔ مذ] [مٹ] [مٹ] کشش کی زبان۔ کشش - (۱) رکش۔ ش (۲) ف۔ ۱۔ مذ] [مٹ] [مٹ] کشش کی زبان۔ کشش - (۱) رکش۔ ش (۲) ف۔ ۱۔ مذ] [مٹ] [مٹ] کشش کی زبان۔ کشش - (۱) رکش۔ ش (۲) ف۔ ۱۔ مذ] [مٹ] [مٹ] کشش کی زبان۔

کشدہ - (۱) ف۔ ۱۔ مذ] [مٹ] [مٹ] کشش کی زبان۔ کشش - (۱) رکش۔ ش (۲) ف۔ ۱۔ مذ] [مٹ] [مٹ] کشش کی زبان۔ کشش - (۱) رکش۔ ش (۲) ف۔ ۱۔ مذ] [مٹ] [مٹ] کشش کی زبان۔ کشش - (۱) رکش۔ ش (۲) ف۔ ۱۔ مذ] [مٹ] [مٹ] کشش کی زبان۔

کعبہ ہونو اس طرف منہ نہ کروں۔ (۱۔ مثل کسی جگہ سے اس قدر بیزار ہونا کہ اگر وہ مقام مقدس اور خدا کا گھر بھی ہونو ادھر رخ نہ کرنا۔ نہایت بیزار ہونا۔

ک۔ف

کُفّ - (Cuff) (انگ۔ ۱۔ مذ) کپڑے کی دوہری سٹی جو تھپس کی آستین کے آگے لگاتے ہیں۔

کُفّ - (ع۔ ۱۔ مذ) (۱) روکن (۲) بھر کے روکن کے سانوںی حرفت کو سائط کردینا۔ (۳) ہاتھ۔ پنجہ۔ ہتھیلی۔

کُفّ - (ف۔ ۱۔ مذ) (۱) کتوا۔ پاؤں۔ پاؤں کے نیچے کا حصہ۔ (۲) پنجہ و دست (۳) ہاتھ کی ہتھیلی۔ (۴) کپڑے کی دوہری سٹی جو آستینوں اور خاص کر تھپس کی آستینوں میں لگاتے ہیں۔ (۵) جھاگ پھین۔ (۶) [اُر] شوک۔ بٹم۔

کُفّ آبگینہ۔ (ف۔ ۱۔ مذ) وہ جھاگ جو شیشہ پھلا لے سے اُپر آجاتی ہے۔

کُفّ آنا۔ (۱۔ محاورہ) منہ سے پھینا کرنا۔ منہ سے جھاگ نکلنا۔

کُفّ افسوس کھانا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) ہاتھ کھنا۔ (۲) افسوس کرنا (۳) پھینانا۔

کُفّ بر کُفّ - (تابع فعل) شرط بدرک۔ (ف)

کُفّ پا۔ (ف۔ ۱۔ مذ) پاؤں کا تھوڑا۔

کُفّ پائی۔ (۱۔ مٹ) زمانہ بلیبیر۔ ایک قسم کی تیل اڑی کی جوتی۔

کُفّ خاک۔ (ف۔ ۱۔ مٹ) (معنی بھر خاک)۔ (کنایت) انسان۔

کُفّ دریا۔ (۱) ہاتھ کی ہتھیلی (۲) بلا بر۔ جوار۔ یکساں۔

کُفّ دست میدان۔ (ف۔ ۱۔ مذ) ویران جگہ چھیل میدان۔ بیابان۔ سنان۔ جنگل۔

کُفّ گیر۔ (ف۔ ۱۔ مذ) ڈوئی۔ کپڑے۔ ڈنڈی والا بڑا پیمہ۔

کُفّ لانا۔ کُفّ لے آجا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) جھاگ لانا۔ (۲) غصہ لانا۔ بد مزاج ہونا۔ (۳) ہڈی یا شراکت کرنا۔

کُفّ لسان۔ (ع۔ ۱۔ مذ) زبان کو روکنا۔ بدگوتی سے باز رہنا۔

کُفّ جفا۔ (ک۔ فاج۔ فاج۔ فاج) (۱۔ مٹ) (۱) ظلم و ستم۔ (۲) [اُر] بشکل تمام۔ جوڑوں کر کے۔

کُفّارہ۔ (کُفّ۔ فار) (ع۔ ۱۔ مذ) کافر کی جمع۔ ناشکرے۔ کافر لوگ۔ انکار کرنے والے۔

کُفّارہ۔ (کُفّ۔ فار) (ع۔ ۱۔ مذ) گناہ و صودینے والا۔ گناہ یا خطا کا بدلہ۔ تصور کا ڈنڈہ جو خدا تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہے۔

کُفّارہ دینا۔ (۱۔ محاورہ) گناہ کا عوض ادا کرنا۔ خطا کا بدلہ دینا۔

کُفّاف۔ (ک۔ فاف) (ع۔ ۱۔ مذ) روزمرہ کا خرچ و وظیفہ۔ روزیہ۔

کُشود۔ (ک۔ شود) (ف۔ ۱۔ مٹ) (۱) کھلنا۔ (۲) پھیلاؤ۔ (۳) خوشی سے پھیلنا۔ (۴) کامیابی۔ نامہ۔

کُشود کار۔ (ف۔ ۱۔ مذ) مطلب حاصل ہونا۔ مشکل حل ہونا۔

کُشود و کُست۔ (ف۔ ۱۔ مذ) کھلنا۔ بند ہونا۔ (کنایت) انتظام۔

کُشور۔ (ک۔ شور) (س۔ ۱۔ مذ) (۱) لڑکا۔ جوان۔ (۲) ہندوؤں کے نام کا آخری پڑو۔ (۳) جاند کا پیچہ۔

کُشور۔ (کُش۔ ز) (ف۔ ۱۔ مٹ) [ولایت۔ اقلیم۔ ملک۔ دیس۔

کُشور کشا۔ کُشور گیر۔ (ف۔ ۱۔ مذ) بادشاہ۔ ملک کا بادشاہ۔

کُشی۔ (ک۔ شی) (ف۔ ۱۔ مٹ) (۱) کھینچنا۔ (۲) برداشت کرنا۔ (۳) امریکہ میں استعمال ہوتا ہے جیسے دل کُشی۔ فاقہ کُشی۔

کُشید۔ (ک۔ شید) (ف۔ ۱۔ مٹ) (۱) کھینچنا۔ (۲) عرق نکالنا۔

کُشیدگی۔ (ک۔ شیدگی) (ف۔ ۱۔ مٹ) (۱) کھناؤ۔ کشش۔ (۲) شکرچی۔

کُشیدہ۔ (ک۔ شی۔ ۵) (ف۔ صفت) (۱) کھینچا ہوا۔ (۲) رنجیدہ۔

کُشیدہ۔ (ک۔ شی۔ ۳) (ف۔ صفت) (۱) دروازہ بند۔ (۲) (مذکر) سُئی کا کام۔ (۳) زردوزی۔

کُشیدہ خاطر۔ (ف۔ صفت) رنجیدہ دل۔ آزرده۔ ناراض۔

کُشیدہ قامت۔ (ف۔ ع۔ صفت) لمبے قد والا۔ دراز قد۔

کُشیدہ کار۔ (ف۔ صفت) کڑھائی کا کام کرنے والا۔ زردوزی سُئی کا کام کرنے والا۔

کُشیدہ کاری۔ (ف۔ ۱۔ مٹ) کڑھائی۔ سُئی کا کام۔

کُشیدہ کاڑھنا۔ (۱۔ محاورہ) سُئی کا کام کرنا۔ باریک کام کرنا (۲) سستی سے کام کرنا۔ دیر لگانا۔

ک۔ع

کُعب۔ (ع۔ ۱۔ مذ) (۱) ٹخنہ (۲) پائسر۔ (۳) علم حساب میں جب کوئی عدد تین مرتبہ باہم ضرب کھانا ہے تو اس کا حاصل ضرب کُعب کہلاتا ہے۔

کُعبتین۔ (ک۔ ب۔ تین) (ع۔ ۱۔ مذ) (۱) کعب لا شنیہ۔ دو توں ٹخنہ۔ (۲) ہڈی کے دو مرتبہ شش پہلو پائے جن سے چومر اور جوا کھلا جاتا ہے۔ (۳) ہر دو کعبہ یعنی مکہ معظمہ اور بیت المقدس۔

کُعبہ۔ (ک۔ ب۔ ع) (ع۔ ۱۔ مذ) (۱) چار گوشوں والی چیز مربع۔ (۲) مکہ مکرمہ۔ اہل اسلام کے منبرک اور مقدس مقام کا نام جہاں ہر سال حج ہوتا ہے۔ یہ عمارت چار گوشوں والی ہے۔

کُعبہ کی طرف ہاتھ اٹھانا۔ (۱۔ محاورہ) کعبہ کو اپنی قسم اور عہد کا گواہ ٹھہرانا۔

کُعبہ مضمود۔ (ع۔ ۱۔ مذ) (کنایت) اصل مضمود۔

روٹی کپڑا - نان و نغیر - (۲) اغازہ -
 کفالت - (ک - ف - کث) [ع - ۱ - مٹ] ذمہ داری - ضمانت - ضمانت
 بار اٹھانا -
 کفالت المال - مال کی ضمانت - ایسی دستاویز جس کے ذریعے
 سے کوئی شخص اقرار کرے کہ میں قانوناً ذمہ دار ہوں -
 کفالت خاص - کسی شخص کا کسی چیز کے نہ دینے یا رکھ چھوڑنے کا
 اس بنا پر دعویٰ وار ہونا کہ اس نے مذکورہ چیز پر ضمانت یا
 روپیہ صرف کیا ہے -
 کفالت نامہ - (ع - ف - ۱ - مذ) ضمانت کی دستاویز - ضمانت نامہ -
 کفایت - (ک - ف - ا - ی - ت) [ع - ۱ - مٹ] (۱) کافی ہونا - حسب ضرورت
 فائدہ حاصل ہونا - (۲) بچت - کمی - صرفہ -
 کفایت سے - (۱) تابع فعل - بجزرسی سے - واجبی خرچ سے -
 کفایت شعار - (ع - ص - ف) کم خرچ کرنے والا - بجزرس -
 کفایت شعاری - (ع - ف - ۱ - مذ) کم خرچ - بجزرسی - صرفہ -
 کفایت کرنا - (۱) کافی ہونا - پورا ہونا - (۲) بچت کرنا - صرفہ کرنا (۳)
 قیمت میں کمی کرنا -
 کفایتار - (ک - ف - ت - ا - ر) [ف - ۱ - مذ] [ب - ۲] چرخ - (۳) کفن چور -
 کفیر - (ک - ف - ی - ر) [ف - ۱ - مذ] (۱) چھوٹا کھیر (۲) سانپ کا بچن -
 کفر - (ع - ۱ - مذ) (۱) ناشکری - (۲) خدا کو ماننا - بے دینی - (۳) ہٹ -
 ضد - آڑ -
 کفر توڑنا - (۱ - محاورہ) (۱) دیندار بنانا - (۲) ضد توڑنا - ہٹ توڑنا -
 (۳) مطیع کرنا - خرید کرنا -
 کفر توڑنا خدا خدا کر کے - (۱ - محاورہ) نہایت مشکل سے مانا یا واقعی ہونا -
 کفرستان - (ع - ف - ۱ - مذ) کافروں کا ملک -
 کفر کا فتویٰ دینا - (۱ - محاورہ) از روئے شرع کسی کو کافر قرار دینے
 کا حکم جاری کرنا -
 کفر کا کلمہ بولنا (ممنہ سے نکالنا - بگنا) (۱ - محاورہ) بے دینی کے
 الفاظ زبان پر لانا -
 کفر چیری - (۱ - مٹ) بڑی محبت - بدنگت -
 کفران - (ک - ف - ان) [ع - ۱ - مذ] ناشکری - ناپاسی -
 کفرانِ نعمت - (ع - ۱ - مذ) احسان فراموشی - نعمت کی ناشکری -
 نیک عزائم -
 کفش - (ف - ۱ - مٹ) بوتلی - پاپوش - نعلین -
 کفش بردار - (ف - ص - ف) (۱) ادنیٰ ترین - ادنیٰ مرتبہ کا - (۲) غلام
 بے وام -
 کفش پا - (ف - ۱ - مٹ) پاؤں کی بوتلی -
 کفش خانہ - (ف - ۱ - مذ) عزیز خانہ - (انگسار) اپنا مکان
 سمیونپڑا -
 کفش دوڑ - (ف - ص - ف) موچی - بچتے بنانے والا - چمار -

کفش کاری - (ف - ۱ - مٹ) جوتے مارنا - سزا دینا -
 کفش کن - (ف - ۱ - مذ) درگاہ کا وہ خادم یا دروازہ جہاں زیارت کو
 آنے والے جوتے آتے ہیں -
 کفش نشین - (ف - ص - ف) جوتوں میں بیٹھنے والا - حاشیہ نشین - ادنیٰ
 مرتبہ کا آدمی -
 کفتاب - (ک - ف - ت - ب) [ف - ۱ - مٹ] (۱) ہند کی ہتھیلی - (۲) پاؤں کا
 تلوا - (۳) ہندی لگا ہوا پاؤں کا تلوا -
 کفن - (ک - ف - ن) [ع - ۱ - مذ] آدمی یا حیوان کے چھوڑنے -
 کفن - (ک - ف - ن) [ع - ۱ - مذ] وہ کپڑا جس میں مردے کو بیٹھتے ہیں - مردے
 کی چادر -
 کفن پھاڑ کر بولنا - (۱ - محاورہ) دفعۃً بول اٹھنا یا چیخ مارنا - نہایت
 بے تاب اور مضطرب ہو کر بولنا -
 کفن چور - (۱ - مذ) (۱) قہر کو دکھ کو کفن چرانے والا - (۲) شریر - بے رحم -
 کفن و فن - (ع - ۱ - مذ) تجزیہ و تکفین -
 کفن سمر سے باندھنا - (پہینا) - (۱ - محاورہ) جان پر کھینا - مرنے پر
 آمادہ ہونا -
 کفن سمر سے باندھے پھرنا - (۱ - محاورہ) لڑنے مرنے کو تیار ہونا -
 جان ہتھیلی پر لیے پھرنا -
 کفن کو کوڑی نہیں - (۱ - محاورہ) نہایت مفلس و قلاش ہے -
 کفن کو گئے - (۱ - محاورہ) (۱) کچھ پاس نہ ہونے کی نسبت قسم کھاتے ہیں -
 یعنی اگر کچھ ہو تو کفن کو گئے - (۲) اگر کوئی ناہند آدمی کسی سے روپیہ
 لے اور کسی صورت میں اس سے واپسی کی امید نہ رہے تو اسے بطور
 بددعا کہتے ہیں کہ یہ رقم تیرے کفن پر گئے -
 کفن کھسوٹ - (۱ - مذ) (۱) کفن چور (۲) لوگوں کا مال کھا جانے والا -
 کفن میللا نہ ہونا - (۱ - محاورہ) (۱) مرے ہوئے کو زیادہ زمانہ نہ
 گزرنے - (۲) تازہ معاملہ ہونا -
 کفن نصیب نہ ہو - (۱ - کورنا) بے گور و کفن رہے -
 کفنانا - (ک - ف - نا - نا) [ا - ر - مص] [میت کو کفن پہنانا - مردے کو پہنلا
 دھلا کر کفن میں پیشنا -
 کفنی - (ک - ف - نی) [ف - ۱ - مٹ] (۱) فقیروں کے پینے کا پیرا جس جو
 مردے کی کفنی کی طرح ہوتا ہے - (۲) وہ بے آستین کڑنا جو مردے
 کو پہناتے ہیں -
 کفو - (ک - ف - و) [ف - ۱ - مٹ] (ع - ص - ف) (۱) ہم جنس - ہم ذات - ہم قوم -
 ہم خاندان - (۲) مانند - برابر - (۳) فرقہ - قوم - بلادری -
 کفیلان - (ک - ف - ان) [ف - ۱ - مٹ] (ع - ص - ف) [مست -
 کفیل - (ک - ف - ی - ل) [ع - ص - ف] ذمہ دار - صامن -
 جو ابده -
 کفیل ہونا - (مص مرکب) ضامن ہونا - ذمہ دار ہونا ضمانت
 دینا -

کُل مُنہا۔ گل مُونہا۔ (۱۔ صفت) (۲) کالے منہ کا آدمی۔ (۳) کم بخت۔ کم نصیب۔
 کُل مہی۔ کُل شوہی۔ کُل موٹی۔ (۱۔ صفت) (۲) نابکار۔ ذلیل (عورت)
 (۳) بد نصیب۔ کم بخت (عورت)۔
 کُل۔ (۱۰۔ صفت) (۱) مٹین۔ آکر۔ (۲) کسی چیز کا حصہ یا جوڑ۔
 کُل بچڑ جانا۔ کُل بچڑنا۔ (۱۔ محاورہ)۔ (۲) مٹین کا بیکار ہو جانا۔ (۳) مزاج کا بچڑنا۔
 کُل دار۔ (۱۔ صفت) کُل کے ذریعے سے بنا ہوا سکہ۔ چہرہ شاہی روپیہ۔
 کُل دار بندوق۔ (۱۔ صفت) توڑے دار بندوق کا لقبین۔ گھوڑے کی بندوق۔ چائپ دار بندوق۔
 کُل کا۔ (۱۔ صفت) کُل کے ذریعے سے بنایا ہوا۔
 کُل کا پتلا۔ (۱۔ مذ) کُل کی طرح کا حرکت کرنے والا۔ (۲) دوسرے کی مدد سے کام کرنے والا۔ دوسرے کا تابع۔ (۳) کل ہارتلی۔
 کُل کا ذکر ہے۔ (۱۔ متفرقہ) تھوڑی مدت کی بات ہے۔
 کُل کا گھوڑا۔ (۱۔ مذ) وہ گھوڑا جو کل اور پڑوں سے چلے۔
 کُل جس نے دیکھی ہے۔ (۱۔ مثل) تاخیر نہ کرو، معلوم نہیں کل کیا ہو۔
 کُل کل۔ (۱۔ صفت) بھڑ بھڑ۔ بند بند۔ انجھنجھڑ۔
 کُل کُل توڑ دینا۔ (۱۔ محاورہ)۔ بھڑ بھڑ دینا۔ بند بند ہلا دینا۔ ٹانگے ہلا دینا۔ ایک ایک عضو کو ڈھیلا اور بیکار کر دینا۔
 کُل کو نہ کھنا۔ (۱۔ محاورہ) آئندہ الزام نہ دینا۔
 کُل کی خبر نہیں۔ (۱۔ متفرقہ) خدا جانے آئندہ کیا ہو۔
 کُل مروڑنا۔ (۱۔ محاورہ) (۲) مٹین کو پتلا کرنا۔ کل درست ہونا۔ (۳) خلاف کر دینا۔ طبیعت کو کھیر دینا۔ برگشتہ کر دینا۔
 کُل۔ (ق۔ ۱۔ مذ و صفت) (۱) ترکیب۔ حکمت۔ (۲) قرارہ۔ (۳) بندوق کا گھوڑا۔
 کُل۔ (۱۔ صفت) آرام۔ چین۔ سکون۔ قرار۔ الطینان۔
 کُل آنا۔ (۱۔ محاورہ) الطینان ہونا۔ آرام پانا۔ چین پڑنا۔
 کُل سیکل ہونا۔ (۱۔ محاورہ) بے آرام ہونا۔ بل جانا۔ (۲) بے ترتیب ہو جانا۔ (۳) انجھنجھڑ جانا۔
 کُل پانا۔ (۱۔ محاورہ) آرام پانا۔ الطینان ہونا۔
 کُل پڑنا۔ (۱۔ محاورہ) جی چھڑنا۔ الطینان ہونا۔ چین پڑنا۔
 کُل نہ پڑنا۔ (۱۔ محاورہ) تڑپنا۔ آرام نہ کرنا۔ چین نہ پڑنا۔
 کُل۔ (۱۔ مذ) (۲) پاسا (۳) پاست کا دیوتا۔ (۴) لڑائی۔ جنگ۔ فساد۔ (۵) کسی قسم کی سب سے بری چیز۔
 کُل جگ۔ (ک۔ ۱۔ مذ) چوتھا جگ۔ وہ زمانہ جس میں فساد و گناہ کی کثرت ہو۔
 کُل۔ (ق۔ ۱۔ مذ) چھوڑا۔
 کُل۔ (ق۔ ۱۔ مذ) خاندان۔
 کُل۔ (ع۔ صفت) (۱) تمام۔ سب۔ جملہ۔ پورا۔ کامل۔ (۲) ہر۔ ہر ایک

کُل۔ (۳) صرف۔ فقط۔
 کُل جید لید لید۔ (ع۔ مثل) ہرئی چیز مزید بڑا ہوتی ہے۔
 کُل صحیح۔ (ع۔ ۱۔ مذ) کُل سرمایہ۔ میزان کُل۔
 کُل مخصوص باریڈ۔ (ع۔ متفرقہ) ہر ترش چیز سرد ہوتی ہے۔
 کُل شئی و چیز حلالی آٹھلہ۔ (ع۔ مثل) ہر چیز اپنے اصل کی طرف لوٹتی ہے۔
 کُل طویل (ع۔ مثل) آلا عمر۔ (ع۔ مثل) ہر لیسے قد والا بے وقوف ہوتا ہے (سولتے حضرت عمر کے)
 کُل قبیل فتنہ آلا علی۔ (ع۔ مثل) جھوٹے مذکا آدمی شرارتی ہوتا ہے (درا حضرت علی کے)
 کُل کائنات۔ (ع۔ ۱۔ صفت) (۲) جیسے مخلوق (۳) ساری صحیح پونجی۔ تمام سرمایہ۔
 کُل کلا۔ کُل کلاں۔ (۱) اسی قدر (۲) لے دے کے۔ بہرہ و جوہ۔ (۳) بالکل۔ پورا پورا۔ (۴) مختار کُل۔ حاکم نماز۔
 کُل من علینا فان۔ (آیت) دنیا کی ہر چیز فنا ہونے والی ہے۔
 کُل۔ (ع۔ ۱۔ مذ) (۲) خاندان۔ گھرانہ۔ کنبہ۔ (۳) ذات۔ ذم۔
 کُل اچھال۔ (۱۔ مذ) خاندان کو بدنام کرنے والا آدمی۔ تنگ خاندان۔
 کُل بکھانا۔ (۱۔ محاورہ) (۲) کسی خاندان کی تعریف و توصیف کرنا۔ (۳) کسی خاندان کا نسب نامہ پڑھنا۔ (۴) خوشامد اور تعریف کرنا۔ کسی کے بڑوں کو بڑا کہنا۔
 کُل دھرم۔ (ع۔ ۱۔ مذ) خاندانی رسم و قاعدہ۔ بڑوں کی پرست۔
 کلا۔ (ک۔ لا) (ک۔ ۱۔ صفت) بہت چھوٹا حصہ۔ ذرے کا اٹھواں حصہ۔ (۲) چاند کے قطر کا سولھواں حصہ۔ (۳) منٹ۔ در سے کا سولھواں حصہ۔ (۴) فریب۔ کمر۔ دھوکا۔ (۵) بہانہ (۶) شعبہ۔ (۷) گن۔ پتھر۔ فن۔ (۸) روشنی۔ (۹) گانے کے جوڑے کا مال۔ (۱۰) نٹ کا کتب۔ (۱۱) کلامت۔ بیچو۔
 کلا بازی۔ قلا بازی۔ وہ حرکت جو سر نیچے اور پاؤں اوپر کر کے نٹ کیا کرتے ہیں۔ (اردو میں عموماً قلا بازی مستعمل ہے)۔
 کلا جنگ۔ (۱۔ صفت) لگتی کا ایک داؤ۔
 کلا کار۔ (۱) فن کار۔ صاحب ہنر (۲) نگار۔ فریبی۔ دغا باز۔ (۳) فسادی۔ ڈنگا کرنے والا۔ شعر بجانے والا۔
 کلا۔ (ق۔ صفت) بے پرمانی۔ کمال۔ حکمت۔
 کلا۔ (ک۔ لا) (۱۔ ۱۰۔ مذ) (۲) کوئل۔ (۳) گال۔ (۴) جبرٹا۔ (۵) سردہ ایسیپ کا وہ پرزہ جس میں بی لگائی جاتی ہے۔ (۶) بلند آوازی۔ (۷) ہڈیانی شور و غل۔ (۸) کمر۔ فریب (ق)۔
 کلابہ کلا لڑنا۔ (۱۔ محاورہ) (۲) ڈو بڑو لڑنا۔ (۳) برابری کے ساتھ مقابلہ کرنا۔
 کلابہ لٹلانا۔ (۱۔ محاورہ) (۲) گالوں میں ہوا بھڑنا۔ (۳) مغرور ہونا۔ (۴) خفگی یا رنج کے باعث منہ سببانے رکھنا۔
 کلابہ لٹوڑ۔ (۱۔ صفت) برابر کا۔ (۲) دندان شکن۔
 کلابہ لٹلا۔ (۱۔ مذ) (۲) زبان دلازی۔ (۳) ظاہر واری (۴) رعب داب۔

کلاجر ۱۔ (۱۔ مذ) ۱۵ رخسار۔ گال۔ (۲۔ بلند آوازی۔ (۳۔ دکشاہیت) رجب۔ دھاک۔

کلاچے ستر بلاٹلے۔ (۱۔ محاورہ) کھانے پینے سے آوی ٹوانا اور تندرست رہنا ہے۔

کلا دیانا۔ (۱۔ محاورہ) بولنے سے روکنا۔

کلا (کتے) دراز۔ (۱۱۔ بے جودہ شور و غوغا کرنے والا۔ چلا کر بولنے والا) بزم بان۔ زبان دراز۔

کلا گرم کرنا۔ (۱۔ محاورہ) شور و غوغا کرنا۔ زبان درازی کرنا۔

کلا گرم ہونا۔ (۱۔ محاورہ) کھانے کو کچھ مل جانا۔

کلے پاتے۔ (۱۔ مذ) سہری پاتے۔ بگڑی کا سر اور اس کے پاؤں جو پکائے جاتے ہیں۔

کتے تلے دیالینا۔ (۱۔ محاورہ) دوسرے کو بات نہ کرنے دینا۔ نقل چما کر دوسرے کو دیالینا۔

کتے چیرنا۔ (۱۔ محاورہ) کمال چیرنا۔ رخساروں کا پھاڑ ڈالنا

کلے والی۔ (۱۔ مش) بلند آواز عورت۔ زبان دراز عورت۔

کلا۔ (دکن، لا، ۱۰۔ مذ) گلی۔ غراہ۔ غرغرا۔ دکرنا کے ساتھ ہندو بولتے ہیں۔

کلاب۔ (دک۔ لاپ) (ع۔ ۱۔ مذ) کلب کی جمع۔ کتے۔

کلابتو۔ کلابتون۔ (دک۔ لا۔ بٹ۔ ٹو۔ ڈون) (۱۔ مذ) چاندی یا سونے کے تار جو ریشم پر پڑھا کر بنے جاتے ہیں۔ چاندی یا سونے کے تاروں کی ڈور۔

کلابتونی۔ (دک۔ لا۔ بٹ۔ ٹو۔ ٹی) (۱۔ صفت) کلابتونوں کا بنایا ہوا۔

کلاب۔ (دک۔ لا۔ بر۔ ف۔ ۱۔ مذ) کچا ٹوٹ جو نکلے پر لگا ہوا ہو۔

کلاخ۔ (Cloth)۔ (دک۔ لائٹ) (انگ۔ ۱۔ مذ) جامہ۔ کپڑا۔

کلاخ مارکیٹ۔ (Cloth Market) (انگ۔ ۱۔ مش) کپڑے کی منڈی۔

کلاخ مرچینٹ۔ (Cloth Merchant) (انگ۔ ۱۔ مذ) کپڑے بیچنے والا سوداگر۔

کلا۔ (دک۔ لار) (ع۔ ۱۔ مذ) شراب فروش۔

کلا۔ (انگ۔ ۱۔ مذ) دیکھے لوگ جو زیادہ مشہور ہے۔

کلا۔ (Clarinet) (انگ۔ ۱۔ مذ) ایک باجا جو منہ سے بجاتے ہیں۔

کلاس۔ (Class) (دک۔ لاس) (انگ۔ ۱۔ مذ) درجہ۔ مرتبہ۔

کلاس۔ (کلاس میٹ)۔ (Class fellow) (۲۔ جماعت۔ ۳۔ ذات پات۔ ۴۔ طبقہ۔ ۵۔ ہم سبق۔ ۶۔ ہم جماعت۔ ۷۔ ہم سبق۔ ۸۔ موٹھ، کلائی۔ ۹۔ کلاسی۔ ۱۰۔ دق۔ ۱۱۔ موٹھ، کلائی۔ ۱۲۔ کلاسیک۔ (Clasic)۔ (دک۔ لا۔ بیک) (انگ۔ صفت و۔ ۱۔ مذ)

کلاسیکی۔ (دک۔ لا۔ سی۔ کی) (انگ کلاسیکل Classical) (۱۔ صفت) (۲۔ ادبیات عالیہ۔ ۳۔ قدیم۔ ۴۔ اعلیٰ درجہ کا۔ مستند۔ ۵۔ ادبیات عالیہ۔ ۶۔ کلاسیکی۔ ۷۔ دک۔ لا۔ سی۔ کی) (انگ کلاسیکل Classical) (۱۔ صفت) (۲۔ ادبیات عالیہ۔ ۳۔ قدیم۔ ۴۔ اعلیٰ درجہ کا۔ مستند۔ ۵۔ ادبیات عالیہ۔ ۶۔ کلاسیکی۔ ۷۔ دک۔ لا۔ سی۔ کی)

کلا۔ (ع۔ ۱۔ مذ) شراب بیچنے والا۔

کلا۔ (ع۔ ۱۔ مذ) شراب خانہ۔ شراب کی دوکان۔

کلا۔ (ع۔ ۱۔ مذ) شراب خانہ۔ شراب کی دوکان۔

کلا۔ (ع۔ ۱۔ مذ) شراب خانہ۔ شراب کی دوکان۔

کلا۔ (ع۔ ۱۔ مذ) شراب خانہ۔ شراب کی دوکان۔

کلا۔ (ع۔ ۱۔ مذ) شراب خانہ۔ شراب کی دوکان۔

کلا۔ (ع۔ ۱۔ مذ) شراب خانہ۔ شراب کی دوکان۔

کلا۔ (ع۔ ۱۔ مذ) شراب خانہ۔ شراب کی دوکان۔

کلا۔ (ع۔ ۱۔ مذ) شراب خانہ۔ شراب کی دوکان۔

کلا۔ (ع۔ ۱۔ مذ) شراب خانہ۔ شراب کی دوکان۔

کلا۔ (ع۔ ۱۔ مذ) شراب خانہ۔ شراب کی دوکان۔

کلا۔ (ع۔ ۱۔ مذ) شراب خانہ۔ شراب کی دوکان۔

کلا۔ (ع۔ ۱۔ مذ) شراب خانہ۔ شراب کی دوکان۔

کلا۔ (ع۔ ۱۔ مذ) شراب خانہ۔ شراب کی دوکان۔

کلا۔ (ع۔ ۱۔ مذ) شراب خانہ۔ شراب کی دوکان۔

کلا۔ (ع۔ ۱۔ مذ) شراب خانہ۔ شراب کی دوکان۔

کلا۔ (ع۔ ۱۔ مذ) شراب خانہ۔ شراب کی دوکان۔

کلا۔ (ع۔ ۱۔ مذ) شراب خانہ۔ شراب کی دوکان۔

کلا۔ (ع۔ ۱۔ مذ) شراب خانہ۔ شراب کی دوکان۔

کھٹ۔ کلن (سٹ) (ق۔ صفت) کالا۔ سیاہ۔
 کلٹی۔ کلن (جی) [آر۔ ۱۔ مرث ۱۵] پرندوں کے خوش نما پر سبز بادشاہ اپنے تاج، ٹوپی یا چڑھی پر لگاتے ہیں۔ جینیفہ۔ طرہ۔ (۲) مور یا پرندوں کے سرکا تاج۔ پرندوں کی چوٹی۔ (۳) کس۔

کُھٹ۔ دق۔ (۱) مذ فقل۔ بتالا۔
 کُھٹا۔ کلن (ف) [آر۔ ۱۔ مذ] ایک سُرُخ رنگ کا پھول۔

کُھٹ۔ کل (صفت) [آر۔ ۱۔ مذ] ایک پکا ہوا ایس دار مادہ جسے پانی میں ملا کر پڑے کو اس میں ڈبو دیتے ہیں۔ (۲) ہار۔ (۳) وہ سیاہ وجھتے بخون کے بگاڑے سنہ پر جو جلتے ہیں۔
 چھب۔ (۴) وہمہ۔ خضاب۔

کُھفت۔ کل (صفت) [ع۔ ۱۔ مرث ۱۵] رنج۔ تکلیف۔ مصیبت۔ (۲) کڈورت۔ رنجش۔

کُھفت و ڈور ہونا۔ (۱) مآورہ۔ (۲) رنج و تکلیف کا ڈور ہونا۔ (۳) کڈورت کا جانا رہنا۔

کُھفہ۔ کل (ف) [آر۔ ۱۔ مذ] ڈیجھے ٹلف اور ترنہ۔

کُھک۔ کل (ع) [آر۔ ۱۔ مذ] نیکہ جس کا ظم بنا تے ہیں۔ نئے نزل۔ (۲) [آر۔ ۱۔ مذ] نمار۔

کُھکار مارنا۔ کل (کار) [ق۔ مآورہ] زور سے چلانا۔
 کُھکارنا۔ کلن (کارنا) [ع۔ مآورہ] پکارنا۔ نعرہ لگانا۔ چینا۔
 کُھکاری۔ کلن (کاری) [ع۔ ۱۔ مرث] چیخ۔ زور کی آواز۔ (۲) بندر کی آواز۔

کُھکاری مارنا۔ (۱) مآورہ۔ (۲) چیخ مارنا۔ چلانا۔ تہمتہ لگانا۔ گوگنا۔ زور سے پکارنا۔ (۳) بندر کا گلیا۔ بندر کا چیخ مارنا۔

کُھگانا۔ کلن (گانا) [ق۔ مص] بدؤ وادینا۔ شور کرنا۔

کُھکٹر۔ کل (Collector) (ک۔ کلکت) [ع۔ ۱۔ مذ] (۱) صاحب منسج۔ ڈپٹی کمشنر (۲) محفل۔ وصول کرنے والا۔ آگاہنے والا۔

کُھکڑی۔ کل (ک۔ کلکت) [ع۔ ۱۔ مرث ۱۵] کلکڑ کا عہدہ۔ (۲) کلکڑ کا کام۔ (۳) کلکڑ کی بچری۔

کُھکل۔ کل (کل) [ع۔ ۱۔ مرث ۱۵] بک۔ بک (۲) جیکڑا۔ (۳) شور و غل۔ عورتوں کا بلند آواز سے لڑنا۔

کُھکل پٹ پٹ۔ (۱) مرث (۲) بکوا س۔ بک بک (۳) جیکڑا۔ فساد۔

کُھکل کاٹنا۔ (۱) مذ۔ بچوں کا ایک کھیل جس میں یکیریں کھینچ کھینچ کر چپا دیتے ہیں۔

کُھکل کرنا۔ (۱) مآورہ (۲) بکواس کرنا۔ باہم تگوار کرنا۔ (۳) دماغ پریشان کرنا۔

کل کلٹ۔ دق (۱) مرث (صہ۔ آہ۔
 کُھکلنا۔ کلن (ک۔ لانا) [ع۔ مص] کاٹ کھانے کو ڈونٹا۔ بدرمزاج

اور ترش رُو ہونا۔ چڑچڑانا۔
 کلکم۔ کلن (کم) [ق۔ آجمن]۔
 کلکتا۔ کلن (کت) [ع۔ ۱۔ مذ] بھڑ [ع۔ ۱۵] بھڑکے بچے کا پر واہ میں تیزی کرنا۔ (۲) چر پائیوں کے بچوں کے میدان میں اچھٹا کونڈنا۔ (۳) کلکنا۔ زہر مار کرنا۔ بے رغبتی سے ٹھانا۔

کلکُٹ۔ کل (کلکٹ) [ق۔ آجمن]۔ لاکھ۔

کلکی۔ کل (کی) [ق۔ ۱۔ مرث] [ع۔ ۱۵] مٹا کو پھینے کی نئے۔
 کلکسا۔ کل (کا) [آر۔ ۱۔ مذ] اولہ۔ مسالے دار نیمہ بھری ہوئی بکری کی انتڑی۔

کلکلمات۔ کل (ل) [ع۔ ۱۔ مذ] مذکورہ و موٹ [ع۔ ۱۵] جمع کی جمع۔
کل کلکی۔ دق (صفت) سیاہ رُو۔ کالی۔

کلکلمہ۔ کل (ل) [ع۔ ۱۔ مذ] [ع۔ ۱۵] لفظ۔ بات۔ قول (۲) وہ با معنی لفظ جو آدمی کے منہ سے نکلے۔ (۳) دین اسلام کی صدا کا عقیدہ (مجازاً) خدا کا نام۔ جمع، کلمات۔

کلکلمتہ اسحق۔ (ع۔ ۱۔ مذ) سچی بات۔ حق کی بات۔ انصاف کی بات۔

کلکلمتہ الخیر۔ (ع۔ ۱۔ مذ) نیک بات۔ نیک صلاح۔

کلکلمہ بھرنا۔ (۱) مآورہ (۲) کلا اللہ اللہ محمد رسول اللہ کہنا۔ خدا کا نام لینا۔ (۳) کسی کا کمال مانتا اور والا وشیدا ہونا۔

کلکلمہ پڑھنا۔ (۱) مآورہ (۲) مسلمان بنانا۔ اسلام میں لانا۔

کلکلمہ پڑھنا۔ (۱) مآورہ (۲) خدا تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرنا۔ کلمہ شہادت کو زبان سے نکالنا۔ مسلمان ہونا۔ (۳) خدا کا نام لینا۔ (۴) کسی کی اطاعت و فرمانبرداری کرنا۔ (۵) کسی بات میں استاد یا کابل ماننا۔ (۶) کسی کا نام یاد کرتے رہنا۔ (۷) کسی کا عاشق اور شیدا ہونا۔

کلکلمہ پڑھوانا۔ (۱) مآورہ (۲) مطیع کرنا۔ فرمانبردار کرنا۔

کلکلمتہ تکبیر۔ (ع۔ ۱۔ مذ) اللہ اکبر سے مراد ہے۔

کلکلمتہ اللہ۔ (ع۔ ۱۔ مذ) مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔

کلکلمتہ شہادت۔ [ع۔ ۱۔ مذ] [ع۔ ۱۵] وہ بات جس سے دین کی مخالفت یا اہانت ہی کے معبود ہونے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بندہ اور رسول ہونے پر گواہی دی جاتی ہے۔

کلکلمتہ طیبہ۔ (ع۔ ۱۔ مذ) پہلا کلمہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدًا وَرَسُولًا اللَّهُ

کلکلمتہ کفر۔ (ع۔ ۱۔ مذ) [ع۔ ۱۵] وہ بات جس سے دین کی مخالفت یا اہانت ہو۔ (۲) غرور کھنڈ کی بات۔

کلکلمہ گو۔ (ع۔ ۱۔ صفت) [ع۔ ۱۵] مسلمان۔ دین اسلام کا کلمہ پڑھنے والا (۲) [آر۔ ۱۔ مذ] کسی کا معتقد۔ (۳) کسی کا خیر طلب۔

کلکلمے کا شریک۔ (۱) مذ۔ ایک ہی خدا اور ایک ہی رسول کا کلمہ پڑھنے والا۔ مسلمان بھائی۔ دینی بھائی۔

کلکلمے کی انگلی۔ انگوٹھے کے پاس کی انگلی۔ انگشت شہاد۔ ستاب۔

کلن - رکت - لن (جہ - ا - منٹ) [۱۵] زخم کی ٹیس - (۲) درد -
 کلنا - دکل - نا (ق - یص) [کلبنا
 کلنٹر - رکت - لن (نہ - ق) [۱۰] ہڈی پر سلیقہ -
 کلنج - رکت - لن (سج - ۵) [۱۰] ہڈی چلتے وقت گھوڑے کی پھل ٹانگوں کا پس
 میں رکت کھانا - (۲) پیڑھی ٹانگوں والا آدمی -
 کلنڈرا - رکت - لن - ڈ - لا (ا - ا - مذ) [۱۵] فرد - فہرست - قرار داد -
 جزم - (۲) جنتی -
 کلنگ - رکت - لن (س - ا - مذ) [عیب - الزام - بدنامی - داغ -
 دھبا -
 کلنگ کا ٹیکا - (۱) ہڈی بنانے کا دھبہ - داغ رسوائی - رُوسیاہی -
 کلنگ کا ٹیکا کلنا - (۱) محاورہ (عیب گنا - رسوا ہونا - بدنام ہونا -
 الزام دھرا مانا -
 کلنگہ - رکت - لن (کتہ - ق) [۱۰] منٹ [کسوٹی -
 کلنگ - رکت - لن (ق - ا - مذ) [قاز - کوچ - ایک ٹیلا لابی دن
 کا پرندہ (۲) اتر - مجازاً لابی ٹانگوں والا آدمی -
 کلنگڑا - رکت - لن (ٹا - ق) [۱۰] تروڑ
 کلنگڑا - رکت - لن (ق - صفت) [موٹا - فربہ -
 کلنی - رکت - لن (نی - ۱) [منٹ] [چھوٹی جو جانوروں کے جسم میں ہوتی ہے
 رکت - (Kilo) (رکت - ل) [یہ - سابقہ] ہزار مرکبات کیل استعمال
 کیا جاتا ہے -
 کلوگرام - (Kilogram) - ہزار گرام یا ایک سیراٹھ تولہ
 کے برابر وزن -
 کلو میٹر - (Kilometer) - ہ فرلانگ یا گیارہ سو گز کے برابر
 کا فاصلہ -
 کلو واٹ - (Kilowatt) - برقی طاقت کا درجہ -
 کلوا - دکل - نو (جہ - صفت) [کالے رنگ کا آدمی - جیشی - سیاہ
 فام - کالا کلوا - روتھ کے لیے واؤ پھول کے ساتھ مستعمل
 کلوا - دکل - وا (جہ - صفت) [کالا کلوا - سیاہ فام - (۲) مذکر] کالا گتا -
 کلوا بیر - (کالا دیو - کالے رنگ کا ایک فرضی موکل)
 کلوار - دکل - وار (جہ - ا - مذ) [کال - شراب بنانے اور بیچنے والا -
 کلوانا - دکل - فانا (جہ - یص) [۱۵] منتر سے قابو کرنا - (۲) بند کرنا -
 کلوانا - رکت - لو (نا) [جہ - صفت] [کالا سیاہ فام -
 کلوش - رکت - نوخ (ق - ا - مذ) [منٹی کا ڈھیلا - کچھ یا کچی اینٹ کارڈا -
 کلوش انداز پر ادا نش سنگ است - (دنت - مثل) اینٹ کا
 جو اب پتھر - خواہ محو چھوڑنے والے کو سخت ہر امنی ہے -
 کلور - رکت - لور (جہ - ا - منٹ) [گائے کا پچھو جو حمان ہونے کے
 قریب ہو -
 کلورائیڈ - (Chloride) - رکت - لور - را (اڈ) [انگ - ا - مذ]
 کلورین کا مرکب -

کلوروفارم - (Chloroform) (رکت - لو - رو - فا - زم) [انگ - ا - مذ]
 واروئے سے ہوشی - ایک رقیق دوا جو سیونشی پیدا کرتی ہے
 کلورین - (Chlorine) - (رکت - لو - رین) [رکت - لو - رین] ایک
 انگریزی دوا -
 کلوقیم - (Colocum) - (رکت - لو - ک - ام) [انگ - ا - مذ]
 مجلس مذاکرہ -
 کلول - رکت - لول - ک - لول (جہ - ا - منٹ) [۱۵] کھیل کود - اچھل کود
 (۲) دل لگی - سیر - (۳) شوخی - چبلا پن - پیارا مذاق -
 کلول کرنا - (۱) محاورہ (۱) کھینا - کودنا - (۲) شوخی میں برلنا - چھپانا -
 (۳) مزے نوشنا - باہر ہنستا بولنا -
 کلونجی - رکت - لول - جی (جہ - ا - منٹ) [ایک قسم کے سیاہ بیج جو اکثر
 اچار میں ڈالے جاتے ہیں -
 کلونس - رکت - لونس (جہ - ا - منٹ) [۱۵] کالک - سیاہی کا جہل - (۲) داغ -
 دھبا - (۳) بنامی -
 کلویٹ - دکل - ول (ق - ویت) [ق] [۱۵] ہرن کا نہ - (۲) کالا -
 کلہ - رکت - لہ - (ق - ا - مذ) [گلاہ کا تختہ - ٹوپی -
 کلہ شجرہ - (۱) سلسلہ خاندان - (۲) اُردا مال - اسباب - استر بستہ -
 کلہ - دکل - لہ - (ق - ا - مذ) [سہ - کھڑی - دیکھنے والا -
 کلہارنا - دکل - ہار (نا) [جہ - یص] [دال کا چھکا جلا کر آمنا -
 کلہاری - دکل - ہاری (جہ - ا - منٹ) [سجھلواؤ عورت جب جو عورت -
 کلہارٹا - دکل - ہارٹا (جہ - ا - مذ) [بڑی کلہاری جس سے کلوی کاٹتے
 اور بھاڑتے ہیں -
 کلہارٹی - دکل - ہارٹی (جہ - ا - منٹ) [کلوی بھاڑنے اور کاٹنے کا
 چھوٹا آلہ -
 کلہڑ - دکل - ہڑ (جہ - ا - مذ) [مٹی کا بڑا آئینہ - (۲) ایک قسم کی
 آتش بازی -
 کلہڑم - دکل - لہ - (جہ - ا - مذ) [تابع فعل] [۱۵] سب کا سب - پورا کا پورا -
 (۲) [صفت] [سب - تمام - کامل - پورا - (۳) اُردا] صرف - فقط -
 کلھیسا - دکلہ - یا (جہ - ا - منٹ) [۱۵] چھوٹا سا مٹی کا گول برتن - (۲) چھوٹا
 سا آئینہ - (۳) چھوٹی سی ہانڈی جس میں جانوروں کا دانہ پانی یا
 کھانا پھوننا رہتا ہے -
 کلھیسا سا - (۱) صفت - بہت تنگ - سکتا ہوا - چھوٹا سا -
 کلھیسا میں گڑ پھوڑنا - (۱) محاورہ - (۱) چھپ کر کوئی کام کرنا (۲)
 ناممکن کام کرنا -
 کلھیسا میں گڑ پھوڑا ہی پھوٹتا ہے - (۱) مثل - (۱) برا کام چھپ
 کر نہیں ہو سکتا - (۲) لازم پوشیدہ نہیں رہ سکتا -
 کللی - رکت - لی (س - ا - منٹ) [۱۵] عینتہ - (۲) کھلا پھول - (۲)
 کونیل - (۳) دو شیزہ کناری - باگرہ - (۲) پرندوں کے نئے اور
 چھوٹے پر - (۵) شتی تراش کا پتھر جو پاجاموں اور انگڑوں وغیرہ

باغ باغ ہو جانا۔

کلیجا بیٹھا جانا۔ (۱۔ محاورہ) دل کا خوف اور ناتوانی کے باعث ڈبنا جانا۔ نہایت مضطرب ہوا جانا۔

کلیجا پاش پاش ہو جانا۔ (۱۔ محاورہ) دل کا ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا۔ دل ٹوٹنا ہو جانا۔ دل کڑھنا۔

کلیجا پتھر ہو جانا۔ (۱۔ محاورہ) دل کا نہایت سخت ہو جانا۔

کلیجا پیک جانا۔ (۱۔ محاورہ) دکھی ہو جانا۔ جلتے جلتے کباب ہو جانا۔ چھانی کباب۔

کلیجا پیکڑ کر رہ جانا۔ (۱۔ محاورہ) دل مسوس کر رہ جانا۔ (۲) کسی صدمے کی بے تابی کو روکنے کے لیے کلیجے پر ہاتھ رکھنا۔

کلیجا پیکڑ لینا۔ (۱۔ محاورہ) کسی صدمے سے بے تاب اور مضطرب ہو جانا۔

کلیجا پیک کر کے پھوٹا ہونا۔ (۱۔ محاورہ) کمال صدمہ پہنچنا۔

کلیجا پیکنا۔ (۱۔ محاورہ) عاجز آنا۔ دل جلنا۔ تنگ آجانا۔ چھانی کا پیکنا۔ کلیجا پیکنا جانا۔ کسی صدمے کی تاب نہ لا سکتا۔

کلیجا پھٹ جانا۔ (۱۔ محاورہ) دل پاش پاش ہو جانا۔ (۲) کسی کے تیر نظر کا گھاس ہو جانا۔ (۳) رشک سے جل مرنا۔ (۴) دکھ سے رہ جانا۔

کلیجا پھٹنا۔ (۱۔ محاورہ) کسی کی مصیبت نہ دیکھ سکتا۔ ترس آنا۔ (۲) دل پر صدمہ گذرنا۔ دل بھرا آنا۔ (۳) جلنا۔ رشک کھانا۔ حسد کرنا۔

کلیجا پھوٹنا۔ (۱۔ محاورہ) کلیجے بے تاب ہونا۔

کلیجا پھینکنا۔ (۱۔ محاورہ) کلیجے جلنا۔

کلیجا تر ہونا۔ (۱۔ محاورہ) پورٹ تر ہونا۔ دولت کے سبب بے نگر ہونا۔ دولت مند ہونا۔

کلیجا تنھام تنھام کر رونا۔ (۱۔ محاورہ) بے تابانہ گریہ وزاری کرنا۔ نار و قطار رونا۔ بے تابی کے باعث دل کو پکڑ پکڑ کر رونا۔

کلیجا تنھام کر رہ جانا۔ (۱۔ محاورہ) دل مسوس کر رہ جانا۔ نہایت بے قرار اور بے تاب ہو جانا۔ تڑپ کر رہ جانا۔ (۲) صبر کر بیٹھنا۔ رنج و غم کا اظہار نہ کر سکتا۔

کلیجا تنھام لینا۔ (۱۔ محاورہ) صدمے کی شدت سے جگر پیکڑ لینا۔ سخت بے چین ہونا۔

کلیجا تھر تھرا نا۔ (۱۔ محاورہ) سخت سردی لگنا۔ (۲) سخت خوف اور وحشت ہونا۔

کلیجا ٹوٹنا۔ (۱۔ محاورہ) دل پر چوٹ لگنا۔ دل پر صدمہ پہنچنا۔

کلیجا ٹوک ٹوک ہونا۔ (۱۔ محاورہ) دل ٹکڑے ٹکڑے ہونا۔ دل پھینکا۔ دل پر صدمہ گذرنا۔ دل بے تاب ہونا۔

کلیجا ٹھنڈا رہنا۔ (۱۔ محاورہ) ماتا خوش رہنا۔ سب خوش رہنا۔ چین اور

میں ڈالتے ہیں۔ نرینہ (۶) ایک قسم کا صراحی وار حقتہ۔ (۷) نرینہ۔ قلمی۔ (۸) شعلہ۔ چراغ کی کو۔ (۹) (۱۰) کلچر کا شگفتہ ہونا۔ پھول

کھلنا۔ (۱۱) فرسبت دل اور انبساط خاطر۔ خوشی ہونا۔

کلی مرچھانا۔ (۱۔ محاورہ) غنچہ پڑ مرده ہونا۔ (۲) طبیعت بگڑ جانا۔ (۳) کبیرہ ہونا۔

رگلی۔ (رگلی۔ لی) [۱۔ ۱۰۔ مٹ] منہ میں پانی بھر کر لگنا۔ غرغہ۔ غرارہ۔ رگلی۔ (رگلی۔ لی) [۲۔ صفت] (۱) سانا۔ پوزا۔ تمام۔ کابل۔ سوجا۔ (۲) منطلق کی اصطلاح میں جس کے مقدم میں بہت سے افراد شریک ہوں۔ جیسے انسان۔ حیوان۔ جمع۔ رگلیات

رگلی۔ (رگلی۔ لی) [۳۔ ۱۔ مٹ] (۱) میچ۔ (۲) کھوٹی۔ رگلی۔ (۳) چوڑی۔ (۴) بچی۔

رگلیا۔ (رگلی۔ لی) [۱۔ ۱۔ مٹ] (۱) کلیجیا (۲) تنگ کو چھو

رگلیات۔ (رگلی۔ لی) [۲۔ صفت] (۱) مٹوٹ [۲] کی جمع۔ ایک ہی شخص کی منقولیات یا تعینفات کا مجموعہ۔

رگلیان۔ (رگلی۔ لی) [۳۔ ۱۔ مٹ] ایک قسم کا چھوٹا سا حقتہ۔

رگلیان۔ (رگلی۔ لی) [۴۔ ۱۔ مٹ] (۱) خیریت۔ عاقبت۔ (۲) خوشی آئندہ۔ (۳) سونا۔ زر۔ (۴) صاحب اقبال۔ (۵) ایک رگلی جو رات کے وقت گائی جاتی ہے۔ اسے شام کلیان بھی کہتے ہیں۔

رگلیان ہونا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) صاحب اقبال ہونا۔ خوش طالع ہونا۔ (۲) کھلنا۔ پھوٹنا۔ سرسبز ہونا۔ (۳) مرنا۔ فوت ہونا۔ (۴) فٹ

نی اللہ ہونا۔

رگلیانا۔ (رگلی۔ لی) [۵۔ ۱۔ مٹ] (۱) درختوں میں شگرفوں کا آنا۔ (۲) پرندوں کا نئے پرول پر آنا۔ نئے پر نہ لگنا۔

رگلیتہ۔ (رگلی۔ لی) [۶۔ ۱۔ مٹ] (۱) تاریخ فصل [۲] پورے طور پر۔

رگلیجا۔ (رگلی۔ لی) [۷۔ ۱۔ مٹ] (۱) بکر۔ ایک عضو (۲) اجازت۔ اجازت۔ جرات۔ دلیری۔ حوصلہ۔ (۳) کناشہ نہایت عزیز۔ دوست۔ (۴) عوام منطلق دل (۵) کھتر تنفر۔

رگلیجا اچھلنا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) دل دھڑکنا۔ گھبرا جانا۔ (۲) خوشی کے اسے بے تاب ہو جانا۔

رگلیجا اڑھانا۔ (۱۔ محاورہ) دل کا نہایت پریشان ہو جانا۔ اوسان اڑے جانا۔

رگلیجا اڑٹ جانا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) دل اڑٹ جانا۔ دیوانہ ہو جانا۔ (۲) تڑپ کر کے جھرتی ہو جانا۔

رگلیجا اڑٹنا۔ (۱۔ محاورہ) زلفت طاری ہونا۔

رگلیجا بلیوں (پانیوں) اچھلنا۔ (۱۔ محاورہ) کمال بے چینی اور اضطراب ہونا۔

رگلیجا بڑھ جانا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) دل بڑھ جانا۔ (۲) جوش سرسبز سے

کلیجیا منہ کو آرتا۔ (۱- محاورہ) دل گھبرا۔ (۲) جی اگتنا خفقان ہوتا
 کلیجیا نکال کے (کہہ لے جانا۔ (۱- محاورہ) کسی کی دولت لے
 جانا۔ مال مار کر لے جانا۔ (۲) بچن کر سب سے اچھی چیز لے جانا۔
 کلیجیا نکال کر (کے) رکھ دینا۔ (۱- محاورہ) جان دے دینا۔ مرجانا۔
 (۳) بہترین چیز نکال کر دینا۔ (۳) کسی امر کی صداقت کے لیے
 بے حد کوشش کرنا۔
 کلیجیا نکال لینا۔ (۱- محاورہ) دیکھیے کلیجیا کا ٹھہ لینا۔
 کلیجیا ہاتھ بھر کا ہو جانا۔ کلیجیا ہاتھ بھر بڑھ جانا۔ کلیجیا ہاتھوں بڑھ
 جانا۔ (۱- محاورہ) ہمت بڑھ جانا۔ حوصلہ بڑھ جانا۔
 کلیجیا ہل جانا۔ (۱- محاورہ) خوف یا دہشت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔
 کمال خوف ہونا۔
 کلیجے پر پھینک رکھ لینا۔ (۱- محاورہ) صبر کرنا۔
 کلیجے پر پھینکنا۔ (۱- محاورہ) سخت اندرونی صدمہ پہنچانا۔
 کلیجے پر چھوٹی سی چل جانا۔ (۱- محاورہ) دل پر تیر سا لگنا۔ دل پر صدمہ
 سا گذرنا۔
 کلیجے پر سانس پ لوٹنا۔ (۱- محاورہ) دل پر نہایت افسوس سا گذرنا۔
 رشک گذرنا۔ حسد گذرنا۔ رنج و صدمہ گذرنا۔
 کلیجے پر گھونسا لگنا۔ (۱- محاورہ) دل پر نہایت صدمہ گذرنا۔
 دل پر جوٹ لگنا۔
 کلیجے پر ہاتھ دھر کے دیکھنا۔ (۱- محاورہ) اپنے دل کا حال دیکھنے
 کے دل کا جاننا۔
 کلیجے پر ہاتھ دھرے پھرنا۔ (۱- محاورہ) بے تاب اور مضطرب ہو
 کر پھرنا۔ دل پر بے پھرنا۔
 کلیجے سے دھواں اٹھنا۔ (۱- محاورہ) کمال دل جلنا۔ نہایت تنگی
 اور برا فرشتگی ہونا۔ دل سے دھواں نکلنا۔
 کلیجے سے لگا کے رکھنا۔ (۱- محاورہ) نہایت عزیز کر کے رکھنا۔
 (۲) کمال احتیاط اور حفاظت سے رکھنا۔ (۳) چھپا کے رکھنا۔
 (۴) جان سے زیادہ رکھنا۔
 کلیجے کا ٹکڑا۔ (۱) بڑی کھنت بکر۔ فور پشیم۔ پارہ دل۔
 کلیجے کے اندر پھانسی لگنا۔ (۱- محاورہ) اندرونی صدمہ یا رنج پہنچانا۔
 کلیجے کے بار ہو جانا۔ (۱- محاورہ) سخت ناگوار ہونا۔
 کلیجے میں تھک لگنا۔ (۱- محاورہ) (۲) دل بگڑنا یا سینے میں کسی چیز کے
 کھانے سے سوزش ہونا۔ (۲) نہایت پیاس اور تشنگی ہونا۔
 (۳) کسی صدمے سے دل بے قرار ہونا۔
 کلیجے میں برسی گزرتا۔ (۱- محاورہ) روحانی ایذا یا صدمہ پہنچانا۔
 کلیجے میں بیٹھے لگنا۔ (۱- محاورہ) کمال بے قراری ہونا۔
 کلیجے میں چٹکیاں لینا۔ (۱- محاورہ) دل جلانا۔ طعنے بھنے کی باتوں سے
 ذہنی صدمہ پہنچانا۔
 کلیجے میں چھید ڈالنا۔ (۱- محاورہ) کمال ایذا پہنچانا۔

سکھ سے رہنا۔
 کلیجیا ٹھنڈا کرنا۔ (۱- محاورہ) چین دینا۔ تسکین دینا۔ کسی کو خوش کرنا۔
 خوشی پانا۔ راحت حاصل کرنا۔
 کلیجیا ٹھنڈا ہونا۔ (۱- محاورہ) (۲) جی خوش ہونا۔ دل کو آرام ملنا۔ (۲)
 تسلی پانا۔ (۳) صبر آنا۔ چین آنا۔
 کلیجیا جلانا۔ (۱- محاورہ) (۲) دل جلانا۔ آزرہ کرنا۔ (۲) [کنایتہ عوام]
 زیادہ سخت پینا۔ (۳) کلیجے پر کسی گرم چیز کا اثر کرنا۔
 کلیجیا جلنا۔ (۱- محاورہ) کوفت ہونا۔ آزرہ لگی ہونا۔
 کلیجیا جلی۔ (۱- صفت) دل سوزنا۔ غم رسیدہ۔
 کلیجیا چاہیے۔ (۱- محاورہ) ہمت چاہیے۔ حوصلہ چاہیے۔
 کلیجیا چھلنی ہونا۔ (۱- محاورہ) وطن و مین سے سنت رنج پہنچنا۔ باتوں کا
 سنت ناگوار گزارنا۔
 کلیجیا چھیدنا۔ (۱- محاورہ) دلی صدمہ پہنچانا۔ بولی لانا۔ طبعی تشنگی سے رنج پہنچانا۔
 کلیجیا خون کرنا۔ (۱- محاورہ) سخت صدمہ پہنچانا۔
 کلیجیا دھڑکنا۔ (۱- محاورہ) خوف یا افسوس کے باعث دل کا پینا۔ دل
 لرزنا۔ دل پکپکانا۔ دل میں دھڑکن ہونا۔
 کلیجیا دھک دھک ہونا۔ (۱- محاورہ) دل کا پینا۔ خوف چھا جانا۔
 کلیجیا دھک سے ہو جانا (زرہ جانا)۔ (۱- محاورہ) دل پر خوف چھا
 جانا۔ صدمہ سا گذرنا۔ دل دہل جانا۔ (۲) سختی ہو جانا۔ حیرت
 زدہ ہو جانا۔ دنگ رہ جانا۔
 کلیجیا سہل ہونا۔ (۱- محاورہ) کسی کی مالی تہی کی تعریف کرنا۔
 کلیجیا سٹک لگانا۔ (۱- محاورہ) دل جلانا۔ دل کباب کرنا۔ رنج کرنا۔
 کلیجیا سٹک لگنا۔ (۱- محاورہ) دل تمام لینا۔ دل کو قابو میں کرنا۔
 کلیجیا کا ٹھہ لینا۔ (۱- محاورہ) (۲) ڈانٹ کی طرح جگر کھا جانا۔ (۲) فریفتہ
 کر لینا دل چین لینا۔ (۳) چوٹی کی یا بیچ کی عمدہ چیز نکال لینا۔
 کلیجیا کا پینا۔ (۱- محاورہ) (۲) خوف چھانا۔ دل کا لرز جانا۔ (۲) مردی
 لگنا۔ پکیچی چھوٹنا۔
 کلیجیا کباب ہونا۔ (۱- محاورہ) جی ٹھیکنا۔ دل جلنا۔ کوفت ہونا۔
 کلیجیا گھٹنا۔ (۱- محاورہ) (۲) ہیرے کی کٹی یا کوئی اور زہریلی چیز
 کھانے سے دل یا جگر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا۔ (۲) خوشی
 دست آنا۔ اسہال آنا۔ (۳) دل دکھنا۔ دل پر نہایت صدمہ
 گذرنا۔ (۴) حادثہ گذرنا۔
 کلیجیا گھرجنا۔ (۱- محاورہ) خوب بیوقوف لگنا۔
 کلیجیا گھلانا۔ (۱- محاورہ) (۲) دولت کھلانا۔ (۲) [کنایتہ] جان تک
 نکال کر ہولے کر دینا۔ از حد خاطر تواضع کرنا۔
 کلیجیا مستوس کر رہ جانا۔ (۱- محاورہ) صدمے کو ضبط کر کے چھپ
 رہ جانا۔ دل ہانک رہ جانا۔
 کلیجیا گھٹنا۔ (۱- محاورہ) کسی صدمے سے بے تاب ہو کر دل کو پکڑ لینا۔
 دل دکھانا۔

ک۔ م

کم - دت (صفت) تھوڑا - ذرا سا - نحیف - قلیل - (۱۲) ادنیٰ - گھٹیا۔
کم آنکار - دت (صفت) غلطی نہایت دینے والا۔
کم اختلاطی - دت (صفت) منساری کی نقیض - الگ الگ رہنا۔
کم از کم - دت (صفت) کم سے کم - بہت کم - تھوڑے سے تھوڑا۔
کم اصل - دت (صفت) - (۱) سچ بات کا کہنا - ذلیل - (۲) نالائق۔
کم اصل سے فنا نہیں - (۱) منقولہ کہنے سے وفاداری کی امید نہ رکھنی چاہئے۔
کم اوقات - دت (صفت) کم حیثیت - بے حیثیت۔
کم بخت - دت (صفت) بد بخت - بد نصیب - مباحثی۔
کم بخت گئے ہاٹ - گواڑوں کے نہ ہاٹ - (۱) مثل - بد نصیب مکان سے سو دالینے جاتے تو گواڑ وادار ہاٹ نہیں ملتے - نہایت بد نصیبی کے اظہار پر بولتے ہیں۔
کم بختی - دت (صفت) - (۱) بد بختی - بستی - (۲) بد شکونی - بد حالی۔ (۳) معیبت - برے دن۔
کم بختی آنا - (۱) محاورہ) شامت آنا - برے دن آنا - معیبت پڑنا۔ آفت نازل ہونا۔
کم بختی جب آئے اونٹ پرٹھے کو گستاخانے - (۱) مثل - نصیبی میں جاسے لاکھ احتیاط کرو، ہونے والی بات ہو کر رہتی ہے۔
کم بختی کا مارا - (۱) مذ - بد نصیبی کا مارا ہوا - بد نصیب۔
کم بختی کے دن - (۱) مذ - برے دن - ایام خسرت۔
کم بختی تے تو نہیں گھیرا - کم بختی تو نہیں آتی - (۱) مثل - تہاری شامت آگئی ہے - پشیمے کو تو ہی نہیں چاہتا۔
کم بضاعت - دت (صفت) کم حیثیت - ٹٹ پونہیا۔
کم پابن - دت (صفت) پست حوصلہ - (۲) اندھا - نابینا۔
کم پایہ - دت (صفت) کم رتبہ - کہینہ۔
کم پڑنا - (۱) محاورہ) جتنی ضرورت ہو اس سے کم پڑنا - تھوڑا جانا۔
کم تر - دت (صفت) بہت کم - بہت تھوڑا - (۲) نہایت ادنیٰ۔
کم ترین - دت (صفت) بہت ہی کم - (۲) خاکسار - ناچیسر۔
کمترینوں اور خواستوں میں یہ لفظ فدوی یا خاکسار کی جگہ نہیں کے معنی میں مستعمل ہے۔
کم نوبتی - دت (صفت) بے پرواہی - بغفلت۔
کم حوصلگی - دت (صفت) - (۱) ہمشہ - بے ہمتی - تھوڑی۔
کم حوصلہ - دت (صفت) کم ظرف - ادھیجا۔ تھوڑا۔ کم ہمت۔
کم حیثیت - دت (صفت) ٹٹ پونہیا۔ کم بضاعت - کم سرمایہ۔
ظہوری سی پونہی والا - (۲) کہینہ - سرفہ - ذلیل - (۳) تھوڑا - ادھیجا۔
کم خرچ - (۱) صفت) کفایت شناس - جزبہ رس - (۲) کم ہوش - تنگدل۔
کم خرچ بالا نشین - دت (صفت) مثل (۱) قیمت میں کم ادا پائیداری میں

کلیجے میں ڈال رکھنا - (۱) محاورہ) فطرت محبت کے باعث یا ماتہ کے مارے دل کے اندر رکھ لینا۔
کلیجے میں ہاتھ ڈالنا - (۱) محاورہ) دل میں گھر کرنا - مقرب اور عزیز ہونا۔ (۲) دولت پر ہاتھ مارنا۔ (۳) دل دکھانا - تکلیف دینا۔
کلیجی - (ک۔ لی۔ جی) (۱) ہتھ - (۲) ہتھ [ہتھ] بجرے وغیرہ کا کیسا جس میں بجز دل پیمپڑا، آملی وغیرہ شامل ہے۔
کلیجہ - (ک۔ لی۔ پیر) [ذ] دیکھیے کلیجی۔
کلینڈ - (ک۔ لینڈ) [ذ] (۱) ہتھ [ہتھ] چابی - یعنی (بکسر اقل بھی صحیح ہے)۔
کلینڈر - (Clear) (ک۔ لی۔ پیر) [انگ - صفت] (۱) صاف - شفاف۔ (۲) ظاہر - واضح - صریح - ہموار۔ (۳) گھلا - بے روک - صاف (۴) بے ہاک - پاک۔
کلیننگ سیل - (Clearing Sale) - (ک۔ لی۔ بی۔ رینگ سیل) [انگ - صفت] - (۱) منٹ - (۲) منٹ - (۳) منٹ - (۴) منٹ - (۵) منٹ - (۶) منٹ۔
داملوں فروخت۔
کلیسا - (ک۔ لی۔ سا) [یو۔ ا] مذ] گرجا - قوم ترسا کا معبد۔
کلیسیائی - (ک۔ لی۔ سا۔ ای) [یو۔ صفت] [انگ - صفت] انسوب بہ کلیسا۔
کلیسیا - (ک۔ لیس - یا) [یو۔ ا] مذ] عیسائیوں کی ایک جماعت جو حضرت مریم کے بت کو مانتی ہے۔
کلینش - (ک۔ لیش) [س - ا] مذ] ڈک - تکلیف - درد - سختی - برصیت۔
(۲) بگڑا - فساد - لڑائی - دنگا۔
کلیگرا - (ک۔ لی - گرا) [قی - ا] مذ] تروٹنڈ۔
کلیٹل - (ک۔ لیتل) [ج - ا] مذ] چوپایوں کا خوشی میں اچھلنا - کودنا۔
کلیل میں خلیل گنا - (۱) محاورہ) خوشی کی حالت میں دغیرہ خوش پیدا ہونا۔ رنگ میں جھنگ پڑنا۔
کلیبل - (ک۔ لین) [ذ] (صفت) [۱] گندہ - رشتہ - (۲) ٹھکا ہوا۔ (۳) گنگا۔
کلیٹم - (ک۔ لیتم) [ع - صفت] [۱] بات کرنے والا - ہم سخن - (۲) حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لقب۔
کلیمر اللہ - (ع - صفت) تمہارے کلام کرنے والا - حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لقب۔
کلیٹم - (Claim) - (ک۔ لیٹم) [انگ - ا] [ذ] (۱) حق - دعویٰ - مطالبہ - (۲) استغاثہ - مالش۔
کلیٹر - (ک۔ لیٹر) [انگ - صفت] صاف کرنے والا۔ (۲) لاری کے ڈرائیور کا مدوکار۔
کلینک - (Clinic) (ک۔ لی - بک) [انگ - ا] مذ] صحت گاہ۔ شفا خانہ۔
کلیٹیہ - (کلن - نیہ) [ع - ا] مذ] گروہ - ایک اندرونی عضو۔
کلیبہ - (ک۔ لی۔ بی۔ ی) [ع - ا] مذ] [۱] بڑبڑی کی ہند - عام قاعدہ - (۲) کالج - (۳) یونیورسٹی - (۴) جمعی - تمام پن - (۵) تمام وکمال - سب کاسب۔

زیادہ۔ (۲) تھوڑے داموں میں بڑا کام نکالنے والی۔
 کم خوابی۔ (د۔ ۱۔ مٹ) نیند نہ آنے کا مرض۔
 کم تھور۔ کم تھوراک۔ (د۔ صفت) تھوڑا کھانے والا۔
 کم ڈولا۔ (د۔ صفت) (۱) بڑول۔ ڈولپوک۔ (۲) کجوز۔
 کم ذات۔ (د۔ صفت) رذیل۔ کینہ۔ بیچ ذات۔
 کم کرو۔ (د۔ صفت) سخت رفتار۔
 کم کرؤ۔ (د۔ صفت) بد صورت۔
 کم کرکان۔ (د۔ صفت) کم کرنے والا۔
 کم کرور۔ (د۔ صفت) (۱) ملازماں۔ نا طاقت۔ (۲) پکا۔
 کمزور مار کھانے کی نشانی۔ (۱۔ مٹ) زیر دست ہمیشہ دبا رہتا ہے۔
 کمزوری۔ (د۔ ۱۔ مٹ) ضعف۔ نا طاقتی۔ نقابت۔
 کم سال۔ (د۔ صفت) کم عمر۔ تھوڑی عمر کا۔
 کم کلتن۔ (د۔ صفت) کم کرنے والا۔ چپ۔ کم گو۔
 کم کلتنی۔ (د۔ ۱۔ مٹ) کم گوئی۔ تھوڑا بولنا۔
 کم کرسن۔ (د۔ صفت) چھٹل عمر کا۔
 کم کرسنا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) توجہ نہ کرنا۔ تھیال میں نہ لانا۔ (۲) اونچا مٹنا۔
 کسی قدر بہرا ہونا۔
 کم کسنی۔ (د۔ ۱۔ مٹ) بچپن۔ تھوڑی سی۔ طفلیت۔
 کم کسواد۔ (ع۔ ف۔ صفت) کم فہم۔ ناقص العقل۔
 کم کسے کم۔ (۱۔ صفت) دیکھیے۔ کم از کم۔
 کم کطاعی۔ (د۔ صفت) بد نصیبی۔ کم انیبی۔
 کم کظرف۔ (د۔ صفت) (۱) کم حوصلہ۔ ادچھا۔ تھوڑا دلا۔ (۲) کینہ۔
 سفلہ۔ عالی ظرف کا نقیض۔
 کم کظرفنی۔ (د۔ ۱۔ مٹ) (۱) کم حوصلگی۔ (۲) کینہ پن۔ رذالت۔
 ادچھا پن۔
 کم عقل۔ (د۔ صفت) بے وقوف۔ نادان۔ کم فہم۔ مؤرکہ۔
 کم عقلی۔ (د۔ صفت) بے عقلی۔ نادانی۔ کم فہمی۔ نا کھی۔
 کم کمر۔ (د۔ صفت) دیکھیے کم کرسن۔
 کم کھیار۔ (د۔ ع۔ صفت) وہ روپیہ جو کم قیمت پر چلے غیر معیاری
 کھوٹا۔
 کم فرصتی۔ (د۔ ع۔ صفت) بہت بھروسہ ہونا۔ عدم فرصت۔
 کم فہم۔ (د۔ ع۔ صفت) نادان۔ نا سمجھ۔
 کم فہمی۔ (د۔ ۱۔ مٹ) نادانی۔ نا کھی۔
 کم قدر۔ (د۔ ع۔ صفت) بے وقعت۔ بے قدر۔
 کم کقسنتی۔ (د۔ ع۔ ۱۔ مٹ) کم نصیبی۔ بد قسمتی۔
 کم کیفیت۔ (د۔ ع۔ صفت) سستا۔ ارزاں۔ نرخ میں کم۔
 کم کھڑنا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) کھٹنا۔ (۲) دفع کرنا۔ (۳) سخت کرنا۔
 (۴) مختصر کرنا۔ اختصار کرنا۔
 کم کھم۔ (د۔ صفت) (۱) تھوڑا تھوڑا۔ (۲) کبھی کبھی۔ (۳) آہستہ آہستہ۔

بندرتیج۔
 کم کھانے عزم نہ کھائے۔ (۱۔ مٹ) کم کھانے سے آدمی نہیں مٹتا، لیکن
 عزم کھانے اور نہ کرنے سے آدمی تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔
 کم کھفتا۔ کم گو۔ (د۔ ۱۔ مٹ) دیکھیے کم کسن۔
 کم کھفتاری (رگوتنی)۔ (د۔ ۱۔ مٹ) کم کسنی۔ خاموشی۔ چپ۔
 کم مایگی۔ (د۔ ۱۔ مٹ) بے حیثیت ہونا۔ بے بضاعتی۔
 کم مایہ۔ (د۔ صفت) تھوڑی پونجی والا۔
 کم محنت۔ (د۔ ع۔ صفت) کام چور۔ محنت مشقت سے دل
 چلانے والا۔
 کم نصیب۔ دیکھیے کم بخت۔
 کم نظر۔ (نگاہ)۔ (د۔ ع۔ صفت) کوتاہ نظر۔ وہ شخص جسے کم
 دکھائی دیتا ہو۔
 کم پیش۔ (د۔ صفت) تھوڑا بہت۔ تقریباً لگ بھگ۔
 کم بہتت۔ (د۔ ع۔ صفت) کم حوصلہ۔ بڑول۔ ڈولپوک۔ کام چور۔
 کم بہتتی۔ (د۔ ۱۔ مٹ) بڑولی۔ کم حوصلگی۔ کام چوری۔
 کم بوٹنا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) تھوڑنا۔ کھٹنا۔ (۲) کسر رہنا۔
 کم کباب۔ (د۔ صفت) (۱) کم لٹنے والا۔ (۲) نادر۔ نایاب۔
 کم کبابی۔ (د۔ ۱۔ مٹ) نا پیدگی۔ نایابی۔ قلت۔
 کما۔ (د۔ ۱۔ ع۔ ۱۔ مٹ) تابع فعل جیسا۔ جس۔ قدر۔
 کما حقہ۔ (د۔ ع۔ ۱۔ مٹ) تابع فعل۔ بخوبی۔ ٹھیک ٹھاک۔ بخوبی۔ جیسا اس کا
 حق ہے۔
 کما ہی۔ (د۔ ع۔ ۱۔ مٹ) جیسا کہ وہ ہے۔ پورا۔ کامل۔
 کما یعنی۔ (د۔ ع۔ ۱۔ مٹ) جیسا کہ چاہیے۔ حسب اطمینان۔ بخوبی۔
 کما کما۔ (د۔ ۱۔ مٹ) (۱) کما۔ (۲) کما۔ (۳) کما۔ (۴) کما۔ (۵) کما۔
 کہیں سے تپلی اور کہیں سے موٹی ہو۔ (۶) [کما] موٹی اور
 گول چیز۔ (۷) کماڑی کا گول ٹکڑا جو چوب نیمہ کے اوپر ہوتا ہے۔
 کما چیر۔ (د۔ م۔ ۱۔ مٹ) (۱) کما۔ (۲) کما۔ (۳) کما۔ (۴) کما۔
 کما۔ (د۔ م۔ ۱۔ مٹ) (۱) کما۔ (۲) کما۔ (۳) کما۔ (۴) کما۔
 راجا کا بیٹا۔ (۳) فرزند۔ پسر۔
 کماڑی۔ (د۔ م۔ ۱۔ مٹ) (۱) کما۔ (۲) کما۔ (۳) کما۔ (۴) کما۔
 لڑکی۔ بن بیابھی لڑکی۔ (۲) شہزادی۔
 کما کھانا۔ (د۔ م۔ کما۔ نا) (۱۔ محاورہ) محنت مزدوری سے پیٹ
 پالنا۔
 کما کئی۔ (د۔ ۱۔ مٹ) شال۔
 کما کما۔ (د۔ م۔ ۱۔ مٹ) (۱) پورا ہونا۔ (۲) ہنر۔ کمن۔ بیانت۔
 (۳) [ا] عجیب کام۔ (۴) لکھی بات۔ اپنی بات۔ (۵) بخوبی۔ عمدگی۔
 (۶) صنعت۔ کاریگری۔ استنادی۔ (۷) پورا۔ سارا۔ سب۔
 کامل۔ (۸) از حد۔ نہایت۔ از بس۔ بدرجہ غایت۔ آنتہا کا۔
 جمع : کمالات۔

کمال پیدا کرنا۔ (۱۔ محاورہ) نحوئی پیدا کرنا۔ ہنر پیدا کرنا۔
 کمال حاصل کرنا۔ (۱۔ محاورہ) کوئی ہنر یا فن بہم پہنچانا۔ لیانت یا
 تابلیت حاصل کرنا۔ (۲۔ کسی کام میں بیطلانی رکھنا۔ مہارت کامل
 بہم پہنچانا۔

کمال ور جسے کا۔ (۱۔ صفت) احمدم۔ نہایت، کامل۔ پورا۔
 کمال دکھانا۔ (۱۔ محاورہ) ہنر یا کرب دکھانا۔ گمن دکھانا۔ جو ہنر دکھانا۔
 (۲۔ کرامت دکھانا۔ کوشش دکھانا۔

کمال کا۔ (۱۔ صفت) بہت اچھا۔ عمدہ۔ اعلیٰ عجیب۔
 کمال کا بنا ہوا۔ (۱۔ صفت) (۱) پرفن۔ بڑا کربتی۔ (۲) نہایت عیار۔

آفت کا پرکالہ۔ (۳) فریبی۔ چالباڑ۔ (۴) نہایت ہوشیار
 کمال کرنا۔ (۱۔ محاورہ) کوئی عجیب اور اٹھکا کام کرنا۔ (۲) مبالغہ
 کرنا۔ (۳) دھوکا دینے میں کامل ہونا۔ (۴) کسی بات میں غالب ہونا۔
 کمال کو پہنچنا۔ (۱۔ محاورہ) کسی بات میں کمال حاصل ہونا۔ (۲)
 پورا ہونا ختم ہونا۔

کمالا۔ (۱۔ ما۔ لا۔) [ا۔ ن۔] [۱۔ مذ۔ ص] کے ساتھ کشتی کرنا۔ پہلوانوں کی
 جنگ زرگری۔ (۲) نور کشتی۔

کمالاٹ۔ (۱۔ ما۔ لا۔) [ع۔ ا۔] [۱۔ مذ۔ کمال کی جمع۔
 کمالٹ۔ (۱۔ وق۔ ا۔) [ع۔ ا۔] [۱۔ مذ۔ کمال۔
 کمالیت۔ (۱۔ ما۔ لی۔) [ع۔ ا۔] [۱۔ مذ۔ کمال۔

کمالینا۔ (۱۔ ما۔ لے۔ نا۔) [ع۔ ا۔] [۱۔ مذ۔ و باعزت کر لینا۔ چھڑے کو
 ملائم اور درست کر لینا۔ (۲) لوگو کی یا تجارت کے وسیلے سے
 روپیہ پیدا کر لینا۔ (۳) نجاست صاف کر لینا۔ (۴) گھڑ کو دینا۔
 بچھڑ لینا۔

کمان۔ (۱۔ کان۔) [ا۔ ن۔] [۱۔ مذ۔ کمانڈر۔ کامور۔] [۱۔ مذ۔
 (۱) حکم۔ (۲) بولی جس پر سپاہی قواعد کرتے ہیں (۳) ہدایت (۴) بڑی
 قیادت۔ امارت۔

کمان افسر۔ (۱۔ مذ۔ کمانڈر۔ فوج کا سردار۔ کمانیر۔ سالار لشکر۔
 کمان بولی جاننا۔ (۱۔ محاورہ) لوگو کی نکلنا۔ ڈیرنی بنانی جاننا۔
 کمان پر جاننا۔ (۱۔ محاورہ) جنگی خدمت پر جاننا۔ لڑائی پر جاننا۔

کمان۔ (۱۔ مان۔) [ع۔ ا۔] [۱۔ مذ۔] [۱۔ مذ۔] [۱۔ مذ۔] [۱۔ مذ۔] [۱۔ مذ۔]
 پھلاتے ہیں۔ قوس۔ دھنک۔ (۲) دائرے کا کوئی حصہ (۳)
 خمیدہ۔ کبر۔ (۱۵) جھکا ہوا۔ لچکدار۔

کمان ابرو۔ (۱۔ صفت) (۱) کمان بیسی ابروؤں والا۔ (۲)
 دجمازا، مشوق۔

کمان بردار۔ (۱۔ مذ۔) [۱۔ مذ۔] [۱۔ مذ۔] [۱۔ مذ۔] [۱۔ مذ۔] [۱۔ مذ۔]
 سچا ہی۔

کمان کپشت۔ (۱۔ صفت) کپڑا۔
 کمان نائٹا۔ (۱۔ محاورہ) کمان چڑھانا۔ کمان کھینچنا۔
 کمان چڑھنا۔ (۱۔ محاورہ) باقبال ہونا۔ ڈھکا ہونا۔ دھو دور ہونا۔

غیر ہونا۔

کمان دار۔ (۱۔ صفت) (۱) دیکھنے کمان بردار۔ (۲) محراب دار۔ توں نما۔
 کمان کتر۔ (۱۔ صفت) قوس قزح۔

کمان زہ کرنا۔ (۱۔ محاورہ) کمان پر چڑھ چڑھانا۔
 کمان سے نکلنا نیز اور منہ سے نکلی بات پھر نہیں آتی۔ (۱) مثل، بہت
 سوچ سمجھ کر بات کرنی چاہیے۔

کمان کش۔ (۱۔ صفت) کمان کھینچنے والا۔ تیر انداز۔
 کمان گر۔ (۱) کمان بنانے والا۔ کمان ساز۔ کنگر۔ (۲) ہاتھ پاؤں کی بڑیوں
 کو جوڑنے اور بانڈنے والا۔

کمان گری۔ (۱) کمانوں کے بنانے کا کام یا پیشہ۔ (۲) بڑیوں کے جوڑنے
 یا بانڈنے کا ہنر۔

کمان میں ہونا۔ (۱۔ محاورہ) زیر حکم ہونا۔ تابع ہونا۔

کمانا۔ (۱۔ ما۔ نا۔) [۱۔ ص] [۱۔ مذ۔] [۱۔ مذ۔] [۱۔ مذ۔] [۱۔ مذ۔] [۱۔ مذ۔]
 کرنا۔ (۳) چڑھا صاف کرنا۔ (۴) منی صاف کرنا۔ (۵) پیشہ کرنا۔ (۶)
 بڑا کام کر کے روپیہ حاصل کرنا۔ (۷) ارتکاب کرنا۔ ذمے لینا۔ (۸)
 زمین کو زرخیز بنانا۔ (۹) گھڑ کرنا۔ گھٹانا۔

کمانچہ۔ (۱۔ مان۔) [ع۔ ا۔] [۱۔ مذ۔] [۱۔ مذ۔] [۱۔ مذ۔] [۱۔ مذ۔] [۱۔ مذ۔]
 دھکی جس سے ٹوٹی دھنتے ہیں۔ (۳) ایک قسم کی سارنگی۔ چڑانا۔
 (۴) [مجازاً] طاقت۔ محراب چھت۔ فولاد کی کمانی۔

کمانڈر۔ (Command) [ا۔ ن۔] [۱۔ مذ۔] [۱۔ مذ۔] [۱۔ مذ۔] [۱۔ مذ۔] [۱۔ مذ۔]
 کمانڈر۔ (Commander) [۱۔ مان۔] [۱۔ مذ۔] [۱۔ مذ۔] [۱۔ مذ۔] [۱۔ مذ۔] [۱۔ مذ۔]
 بڑا افسر۔ سالار لشکر۔

کمانڈر انچیف۔ (Commander-in-Chief) [ا۔ ن۔] [۱۔ مذ۔] [۱۔ مذ۔] [۱۔ مذ۔] [۱۔ مذ۔] [۱۔ مذ۔]
 امیر فوج۔ سالار اعظم۔ جنگی لاٹ
 کمانڈر انٹ۔ (Commandant) [۱۔ مان۔] [۱۔ مذ۔] [۱۔ مذ۔] [۱۔ مذ۔] [۱۔ مذ۔] [۱۔ مذ۔]
 کیدان۔ فوجی سردار۔ جنگی حاکم۔

کمانڈو۔ (Commando) [ا۔ ن۔] [۱۔ مذ۔] [۱۔ مذ۔] [۱۔ مذ۔] [۱۔ مذ۔] [۱۔ مذ۔]
 کمانہ۔ (۱۔ مذ۔) [۱۔ مذ۔] [۱۔ مذ۔] [۱۔ مذ۔] [۱۔ مذ۔] [۱۔ مذ۔]
 کمانی۔ (۱۔ ما۔ فی۔) [۱۔ مذ۔] [۱۔ مذ۔] [۱۔ مذ۔] [۱۔ مذ۔] [۱۔ مذ۔] [۱۔ مذ۔]
 قوس یا ملحقہ وغیرہ جو اکثر گاڑیوں۔ گھڑیوں اور کرسیوں وغیرہ
 میں لگتے ہیں۔

کمانی نہ بہتیا گاڑی جو ت میرے جھیتا۔ (۱) مثل، غزبت میں
 شیعہ۔

کمانے کو بھیر۔ کمانے کو شیر۔ (۱) مثل، جہول اور نیکے آدمی کے
 لیے بولتے ہیں۔

کمانو۔ (۱۔ ما۔ او۔) [۱۔ ص] [۱۔ مذ۔] [۱۔ مذ۔] [۱۔ مذ۔] [۱۔ مذ۔] [۱۔ مذ۔]
 مزدور۔ (۳) خاوند۔ مالک۔ شوہر۔
 کمانو آئے ڈرتنا، مٹھو آئے لڑنا۔ (۱) مثل، نکھٹا اور نکھا گھڑ والوں
 پر اپنا ناجائز رعب ڈالتا ہے۔ اور کمانو بے چارہ خاموشی سے

کمل اور ٹھننے سے فقیر نہیں ہوتا۔ (ایش) ہمیں بدلنے سے کمال پیدا نہیں ہوتا۔

کٹلا۔ (کٹ۔ لا) (س۔ ا۔ مٹ) [۱] پھی دیوی کا نام۔ (۲) ڈنڈو کی بیوی۔ (۳) خوبصورت عورت۔

کٹلا۔ (کٹ۔ لا) [ھ۔ ا۔ مذ] ایک قسم کا زرد کپڑا جس کے جسم پر کثرت سے زوال ہوتا ہے۔ (۲) ایک قسم کی تاریکی۔ (۳) پاگل۔

کٹلا نا۔ (کٹ۔ لا۔ نا) [ھ۔ م۔ ص] آبر جانا۔ طراوت نہ رہنا۔ (۲) خشک ہونا۔ شوکتا۔ (۳) ڈبلا ہونا۔ (۴) ٹھکیں ہونا۔

کٹل بانی۔ کٹل باؤ۔ (کٹ۔ کن۔ با۔ ای۔ ک۔ کن۔ با۔ او) [ہ۔ ا۔ مذ] برفان ایک بیماری جس میں آنکھیں زرد ہو جاتی ہیں۔

کٹلنا۔ (کٹ۔ کن۔ نا) [ق۔ م۔ ص] آ کٹلا نا۔

کٹنی۔ (کٹ۔ نی) [ا۔ ا۔ م۔ ن۔ ث] اکمل کی تصغیر۔ چھوٹا کمل۔

کٹنی جھانا۔ (۱) محاورہ) سوگ یا ماتم کی علامت یا ہرگز نا کیونکہ جس شخص کا کوئی تر جائے اسے کر یا کرم تک کٹی چکا کر بیٹھا پڑتا ہے۔

کٹی جتنی بھیجے گی بھاری ہوتی۔ (ایش) جتنا اسراف کرو گے یا جتنا ابر بھانگے لڑ بھاری بڑھے گی۔

کٹی ڈالنا۔ (کٹی پٹ) کسی کو فریب دے کر ٹوٹ لینا۔

کٹی میں مسرت (کٹن) ہونا۔ (۱) محاورہ) کسی کی پروا نہ ہونا۔ (۲) ہونا۔

کٹیڈیٹ۔ (کٹ۔ ٹیڈ) [م۔ ہ۔ ا۔ مذ] دیکھیے کامیڈیٹ۔

کٹیڈی۔ (Commentary) [ک۔ ٹیڈ۔ ری] [انگ۔ ا۔ مٹ] تفسیر۔ شرح۔ تبصرہ۔

کٹیڈیٹر۔ (Commentator) [ک۔ ٹیڈ۔ ری] [انگ۔ ا۔ مذ] شارح۔ مفسر۔ ماسٹر۔ مفسر۔ مفسر۔

کٹیڈ۔ (کٹ۔ مٹڈ) [ق۔ ا۔ مٹ] ایک قسم کی چرمی رسی جو کسی کی گردن یا منڈ پر میں ڈال دیتے ہیں اور اس کے ذریعے سے گلا گھونٹنے یا دیوار پر چڑھنے میں مدد دیتے ہیں۔ (۲) رسی کی میڑھی جس سے چور مکان پر چڑھتے ہیں۔ (۳) پھندا۔ حلقہ۔

کٹیڈل۔ (کٹ۔ مٹن۔ ڈل) [ہ۔ ا۔ مذ] [۱] مٹی یا گڑھی کا پانی کا برتن جسے سادھو استعمال کرتے ہیں۔ (۲) ٹوٹی والا برتن۔

کٹیڈنگ۔ (کٹ۔ مٹن۔ گز) [ا۔ ا۔ مذ] دیکھیے کمان گر۔

کٹیڈنی۔ (کٹ۔ مٹو۔ نی) [ق۔ ا۔ مٹ] نیلوفر۔

کٹیڈور۔ (Commodore) [کٹ۔ مٹو۔ ٹور] [انگ۔ ا۔ مذ] بحری فوج کا اعلیٰ عہدیدار جس کا درجہ امیر البحر کے بعد ہوتا ہے۔

کٹیڈنی۔ (کٹ۔ مٹو۔ نی) [ق۔ ا۔ مٹ] ایک قسم کی مہون جس کا جزو اعظم زبیرہ ہے (کمون) زبیرے سے منسوب۔

کٹیڈار۔ (کٹ۔ ہار۔ ا۔ مذ] [ھ۔ ا۔ مذ] مٹی کے برتن بنانے والا۔ کوزہ ساز۔

کٹیڈار پبل نہ چلا گدھیا کے کان آبیٹھے۔ (ایش) زبردست سے پیش نہ چلی تو غریب پر غصہ آتا رہا۔

کبھار کا آوا۔ (۱) مذ) برتن پکانے کا پتلا وہ۔

کبھار کا چاک۔ (۱) مذ) کوڑی کا گول سطح کھرا جس کو پکڑ دے کر کبھار برتن بناتا ہے۔

کبھار کہنے سے گدھے پر نہیں چڑھتا۔ (ایش) جب کوئی صرف اپنی ہی خوشی سے کام کرے اور لوگوں کے کہنے ٹھننے سے نہ کرے۔ اس وقت یہ پیش بولی جاتی ہے۔

کبھارن۔ (کبھاری۔ کم۔ ہا۔ زن۔ کم۔ ہا۔ ری) [ھ۔ ا۔ مٹ] کبھار کی جوڑو ایک قسم کی چھڑ۔

کٹی۔ (کٹی۔ جی) [ا۔ ا۔ مٹ] توڑا۔ قلت۔ نقصان۔ خسارہ۔ کوتاہی کی نہ کرنا۔ (۱) محاورہ) کوتاہی نہ کرنا۔ کسر نہ چھوڑنا۔ کوشش سے باز نہ رہنا۔ خدا نہ چھوڑنا۔

کٹیٹ۔ (کٹ۔ ٹیٹ) [ق۔ ا۔ مذ] سیاہی مائل۔ سرخ رنگ کا گھوڑا۔

کٹیٹ۔ (کٹ۔ ٹی۔ ٹیٹ) [ق۔ ا۔ مٹ] مقدار۔ مقدار اس چیز کی جو تولی ناپی یا گنی جائے۔

کٹیٹی۔ (Committee) [کٹ۔ مٹ۔ ٹی] [انگ۔ ا۔ مٹ] [۱] جمعی خاص یا جماعت جو کسی خاص مقصد کے لیے مقرر کی گئی ہو۔

کٹیٹی کرنا۔ (۱) محاورہ) پچائیت کرنا۔ باہم جمع ہو کر مشورہ کرنا۔

کٹیڈان۔ (کٹ۔ مٹ۔ وان) [ق۔ ا۔ مذ] کپتان کا نائب۔

کٹیڈا۔ (کٹ۔ مٹ۔ وا) [ھ۔ ا۔ مذ] [۱] کسان کا ٹھلوا ٹوک۔ چاکر۔ (۲) باغبان کے تخت کام کرنے والا مزدور۔ (۳) مددگار۔ معاون۔

کٹیڈار۔ (کٹ۔ مٹ۔ سار) (Commissar) [انگ۔ ا۔ مذ] ناظر۔

کٹیڈنگ (روس میں)

کٹیڈن۔ (Commission) [کٹ۔ مٹ۔ شین] [انگ۔ ا۔ مذ] [۱] عہدت ماہرین۔ وہ جماعت جسے کوئی خاص کام کرنے کا اختیار یا حکم دیا گیا ہو۔ (۲) پروانگی۔ حکم۔ ہدایت۔ سند تقرر۔ (۳) معاوضہ یا فیصلہ نامہ جو کسی کیشن ایجنٹ یا آرٹھی کو دی جاتی ہے۔ (۴) آلٹسٹ۔ ڈنڈو۔

کٹیڈن ایجنٹ۔ (Commission Agent) [انگ۔ ا۔ مذ] [۱] دلال۔ آرٹھینا۔

کٹیڈن بیٹھا۔ (۱) محاورہ) کسی امر کی تحقیقات یا تصدیق کے لیے کسی جماعت کا اجلاس ہونا۔

کٹیڈنڈ۔ (Commissioned) [کٹ۔ می۔ شن۔ مٹڈ] [انگ۔ مٹ] [۱] سند یافتہ (فوجی افسر) (۲) کسی سرکاری جماعت (سول سروس) (فوج) کا عہدہ دار۔ کسی علاقہ یا جگہ کا اعلیٰ عہدہ دار۔

کٹیڈلا۔ (کٹ۔ می۔ لا) [ھ۔ ا۔ مذ] ایک سرخ رنگ کی دوا جو اکثر بچوں کو کرم کھم یا کھمیل والے زخموں کے دفیہ کے لیے دیتے ہیں۔

کٹیڈلا۔ (کٹ۔ مٹ۔ لا) [ھ۔ ا۔ مذ] فدیج۔ فوج خانہ۔

کٹیڈن۔ (کٹ۔ مٹن) [ق۔ ا۔ مٹ] [۱] بیچ۔ کینہ۔ (۲) منسلہ۔

کٹل اور ٹھننے سے فقیر نہیں ہوتا۔ (ایش) ہمیں بدلنے سے کمال پیدا نہیں ہوتا۔

کٹلا۔ (کٹ۔ لا) (س۔ ا۔ مٹ) [۱] پھی دیوی کا نام۔ (۲) ڈنڈو کی بیوی۔ (۳) خوبصورت عورت۔

کٹلا۔ (کٹ۔ لا) [ھ۔ ا۔ مذ] ایک قسم کا زرد کپڑا جس کے جسم پر کثرت سے زوال ہوتا ہے۔ (۲) ایک قسم کی تاریکی۔ (۳) پاگل۔

کٹلا نا۔ (کٹ۔ لا۔ نا) [ھ۔ م۔ ص] آبر جانا۔ طراوت نہ رہنا۔ (۲) خشک ہونا۔ شوکتا۔ (۳) ڈبلا ہونا۔ (۴) ٹھکیں ہونا۔

کٹل بانی۔ کٹل باؤ۔ (کٹ۔ کن۔ با۔ ای۔ ک۔ کن۔ با۔ او) [ہ۔ ا۔ مذ] برفان ایک بیماری جس میں آنکھیں زرد ہو جاتی ہیں۔

کٹلنا۔ (کٹ۔ کن۔ نا) [ق۔ م۔ ص] آ کٹلا نا۔

کٹنی۔ (کٹ۔ نی) [ا۔ ا۔ م۔ ن۔ ث] اکمل کی تصغیر۔ چھوٹا کمل۔

کٹنی جھانا۔ (۱) محاورہ) سوگ یا ماتم کی علامت یا ہرگز نا کیونکہ جس شخص کا کوئی تر جائے اسے کر یا کرم تک کٹی چکا کر بیٹھا پڑتا ہے۔

کٹی جتنی بھیجے گی بھاری ہوتی۔ (ایش) جتنا اسراف کرو گے یا جتنا ابر بھانگے لڑ بھاری بڑھے گی۔

کٹی ڈالنا۔ (کٹی پٹ) کسی کو فریب دے کر ٹوٹ لینا۔

کٹی میں مسرت (کٹن) ہونا۔ (۱) محاورہ) کسی کی پروا نہ ہونا۔ (۲) ہونا۔

کٹیڈیٹ۔ (کٹ۔ ٹیڈ) [م۔ ہ۔ ا۔ مذ] دیکھیے کامیڈیٹ۔

کٹیڈی۔ (Commentary) [ک۔ ٹیڈ۔ ری] [انگ۔ ا۔ مٹ] تفسیر۔ شرح۔ تبصرہ۔

کٹیڈیٹر۔ (Commentator) [ک۔ ٹیڈ۔ ری] [انگ۔ ا۔ مذ] شارح۔ مفسر۔ ماسٹر۔ مفسر۔ مفسر۔

کٹیڈ۔ (کٹ۔ مٹڈ) [ق۔ ا۔ مٹ] ایک قسم کی چرمی رسی جو کسی کی گردن یا منڈ پر میں ڈال دیتے ہیں اور اس کے ذریعے سے گلا گھونٹنے یا دیوار پر چڑھنے میں مدد دیتے ہیں۔ (۲) رسی کی میڑھی جس سے چور مکان پر چڑھتے ہیں۔ (۳) پھندا۔ حلقہ۔

کٹیڈل۔ (کٹ۔ مٹن۔ ڈل) [ہ۔ ا۔ مذ] [۱] مٹی یا گڑھی کا پانی کا برتن جسے سادھو استعمال کرتے ہیں۔ (۲) ٹوٹی والا برتن۔

کٹیڈنگ۔ (کٹ۔ مٹن۔ گز) [ا۔ ا۔ مذ] دیکھیے کمان گر۔

کٹیڈنی۔ (کٹ۔ مٹو۔ نی) [ق۔ ا۔ مٹ] نیلوفر۔

کٹیڈور۔ (Commodore) [کٹ۔ مٹو۔ ٹور] [انگ۔ ا۔ مذ] بحری فوج کا اعلیٰ عہدیدار جس کا درجہ امیر البحر کے بعد ہوتا ہے۔

کٹیڈنی۔ (کٹ۔ مٹو۔ نی) [ق۔ ا۔ مٹ] ایک قسم کی مہون جس کا جزو اعظم زبیرہ ہے (کمون) زبیرے سے منسوب۔

کٹیڈار۔ (کٹ۔ ہار۔ ا۔ مذ] [ھ۔ ا۔ مذ] مٹی کے برتن بنانے والا۔ کوزہ ساز۔

کٹیڈار پبل نہ چلا گدھیا کے کان آبیٹھے۔ (ایش) زبردست سے پیش نہ چلی تو غریب پر غصہ آتا رہا۔

کرن چھٹا۔ (۱- مذ) وہ شخص جس کے کان پیٹے ہوئے ہوں۔
 کرن چھوٹا۔ (۱- مذ) کرن بچوں۔
 کرن پھیڑ۔ (۱- مذ) وہ درم جو کان کے نیچے سے گلے کی ہڈ تک آجاتا ہے۔
 کن ٹوہپ۔ (۱- مذ) ایک قسم کی بڑی لوہی جس سے کان ڈھکے رہتے ہیں۔
 کن چھدا۔ (۱- مذ) وہ شخص جس کے کان چھدے ہوں۔
 کن چھیدن۔ (۱- مذ) بچوں کے کان چھیدنے کی رسم۔
 کن کرکن۔ (۱- صفت) (۱) راگ رنگ سننے کا مزہ۔ (۲) ہائیں سننے کا مزہ۔ (۳) کالوں کاراگ کی آوازوں سے آشنا ہونا۔ (۴) بڑگوئی سننے کی عادت۔
 کن رسیا۔ (۱- مذ) وہ شخص جسے گانا سننے کا شوق ہو۔ راگ کے سمجھنے اور لطف حاصل کرنے کا ذائقہ رکھنے والا۔
 کن سلانی۔ (۱- صفت) ایک قسم کا لہانہ دار کیڑا جو برسات میں ہلکے اور اکثر کان میں گھس جاتا ہے۔ کن کھورا۔ ہزار پائیہ۔
 کن سٹوٹیاں لینا۔ (۱- محاورہ) چھپ کر باتیں سننا۔ خفیہ جھد لینا۔ ٹوہ رکنا۔ جاسوسی کرنا۔
 کن گٹا۔ (۱- صفت) (۱) گوش بریدہ۔ بوجیا۔ (۲) دوسروں کے کان کاٹنے والا۔
 کن کھورا۔ (۱- مذ) ہزار پائیہ۔ ایک زہریلا کیڑا جو کان میں گھس جاتا ہے یا جسم سے چپٹ کر اپنے پاؤں گاڑ دیتا ہے۔
 کن۔ (۱- صفت) کھوٹنے والا۔ (مرکبات میں مستعمل ہے جیسے گورکن۔ چاہ کن۔
 کن۔ (۱- صفت) (۱) کامرہ استفہام (کس کی جمع۔
 کن آنکھوں سے دیکھوں۔ (۱- محاورہ) دیکھا نہیں جاتا۔
 کن وقتوں کی۔ (۱- صفت) پرانے زمانے کی۔ پُرانی۔
 کن۔ (۱- صفت) کرنے والا۔ (مرکبات میں استعمال ہوتا ہے) جیسے کارکن۔
 کن۔ (۱- صفت) (۱) صیغہ امر حاضر ہو جا۔ وجود میں آ جا۔ خدا تعالیٰ کو جب مالم کا پھیل کر نامنظور ہوا تو یہ لفظ فرمایا۔
 کن ڈکال۔ (۱- فعل) ہو جا پس وہ چوگئی (مجازاً) دُینا۔ مخلوقات۔ موجودات۔ کائنات۔
 کن فیکون۔ (۱- فعل) ہو جا پس وہ ہو گیا۔ (۲) (مجازاً) مخلوق۔ کائنات۔
 کٹا۔ (کن۔ نا) [۱-۵] (۱) کنارہ۔ لب۔ کور۔ (۲) پتنگ کا وہ حصہ جس میں ڈور باندھتے ہیں۔ (۳) جوانی کے نیچے کا کنارہ۔
 کٹا کل جانا۔ (۱- محاورہ) کنارے کا چھٹ جانا۔ کنارہ ٹوٹ جانا۔
 کٹے ڈھیلے ہو جانا۔ (۱- محاورہ) (۱) رگ و پے کا ست اور عضو کا بیکار ہو جانا۔ (۲) ٹھک جانا۔ عاجز آ جانا۔ پتلا حال ہونا۔ جرش جوانی اور غرور و عزت کا جانا رہنا۔ (۳) کھوسے کے بازو ڈھیلے ہو جانا۔
 کٹا۔ (۱- صفت) کہنا۔
 کٹا۔ (۱- صفت) (۱) ناز [فت] (۱- صفت) [۱] بٹل۔ آغوش۔ گود۔ سینہ۔ چھاتی۔ (۲) جدائی۔ علیحدگی۔ مفارقت۔

اوجھا۔ کم ظرف۔ (۳) نالائق۔ نایکار۔ (۴) گوکہ چاکر۔ نیچ ذات کے لوگ۔
 کینن۔ (کن۔ بین) [ع۔ امث] گھات۔ دشمن یا شکار کے لیے چھپ کر بیٹھنا۔ شب خون۔
 کمین گاہ۔ (۱- صفت) گھات کی جگہ۔ وہ جگہ جہاں چھپ کر شکار یا دشمن کو ماریں۔
 کینٹہ۔ (کن۔ بینٹہ) [۱-۵] [مذ] دغا۔ فریب۔ مکر۔
 کینٹہ یا۔ (کن۔ بینٹہ) [با] [۱-۵] [مذ] دغا باز۔ فریبی۔ مکار۔ چال باز۔
 کینٹہ گی۔ (کن۔ بین۔ گی) [فت] [۱-۵] [مذ] [ا] اوجھا پن۔ کم ظرفی۔
 پن۔ کینٹہ پن۔
 کینٹہ۔ (کن۔ می۔ نہ) [فت] [صفت] [۱] اوجھا۔ سفلہ۔ کم ظرف۔ (۲) نیچ ذات کا۔ کم اصل۔
 کینٹہ پن۔ (کن۔ بی۔ نہ) [۱-۵] [مذ] [ا] اوجھا پن۔ رذالت۔ کم ظرفی۔
 کینٹہ سے خدا کا نام نہ ڈالے۔ (۱- ایشل) براصل اور کم ذات سے خدا پالانہ ڈالے۔
 کینون (Commune) (کن۔ یون) [انگ۔ ۱-۵] [مذ] پرگنہ۔ تعلقہ۔ ملکی انتظام کا سب سے چھوٹا مرکز۔
 کینوشی (Community) (کن۔ یو۔ ن۔ ٹی) [انگ۔ امث] [۱] سا جھا۔ ملکیت مشترکہ۔ (۲) طبقہ۔ فرقہ۔ گروہ۔ (۳) بستی۔ آبادی۔ متحدہ۔ برادری۔
 کینونزم (Communism) دیکھیے اشتائیت۔ وہ معاشرتی نظریہ جس کے مطابق دولت آفرینی کے تمام ذرائع، زمین، بینک ٹیکرٹی وغیرہ محنت کرنے والوں کی مشترکہ ملکیت ہوں اور ہر شخص کو بقدر محنت یا بقدر ضرورت اجرت ملے۔
 کینونسٹ (Communist) (دیکھیے اشتراکی۔ کینونزم کے نظریہ پر عمل کرنے والا۔

ک۔ن

کن۔ (۱-۵) (مذ) (۱) ریزہ۔ ذرہ۔ ذراسا۔ (۲) اناج کا دانہ۔ غدہ۔ (۳) ٹکڑو۔
 کچھہ۔ پھول (۴) طاقت۔ بل۔ زور۔ (۵) بیم۔ آدھا۔ کونہ۔ گوشہ۔
 جیسے کن انکھیاں اپنی گوشہ چشم۔ (۶) کان (ق) (۷) نزدیک (ق) (۸) سے (ق)۔
 کن انکھیوں سے دیکھنا۔ (۱- محاورہ) ترجمہی نگاہ سے دیکھنا۔ گوشہ چشم سے دیکھنا۔ آنکھ چڑا کر دیکھنا۔ نیچی نظر سے دیکھنا۔ نظر بھا کر دیکھنا۔
 کن بٹائی۔ (۱-۵) (صفت) فضل کو چند حصہ داروں میں نسبتہ تقسیم کرنا۔

کاچپنڈ۔

کُنڈا - (کن۔ ڈا) [ھ۔ ۱۔ مذ] اُپلا۔ تعالیٰ۔ اربا۔
کُنڈا ہونا۔ (۱۔ محاورہ) خشک ہونا۔ ڈبلا ہونا۔
کُنڈا۔ (کن۔ ڈا) [ھ۔ ۱۔ مذکر] (۱) حلقہ۔ لوسے کا وہ حلقہ جس میں زنجیر طائے
ہیں۔ (۲) زنجیر کُنڈی۔

کُنڈال - (کن۔ ڈال) [ق۔ ۱۔ مؤنث] کُنڈالی۔
کُنڈلگارتن - (Kindergarten) (کن۔ ڈز۔ گار۔ ٹن) [انگ۔
۱۔ مذ] چھوٹے بچوں کا مدرسہ جہاں کھلونوں سے تعلیم دی جاتی ہے۔
کُنڈلگر - (Conductor) کن۔ ڈکن۔ ٹن [انگ۔ ۱۔ مذ] رہنما۔

نہتر۔ پیشرو۔ (۲) منظر۔ بہمنہ۔ منصرم۔ داروغہ۔ (۳) کرائے کی
گاڑیاں چلانے والا۔ (۴) موصل۔ ناقص۔ (محاورت)
کُنڈل - (کن۔ ڈکن) [ھ۔ ۱۔ مذ] پیاز کا موٹا چھلکا۔
کُنڈل - (کن۔ ڈکن) [س۔ ۱۔ مذ] حلقہ۔ داروغہ۔ پچتر۔ (۲) کان کا بالہ۔ (۳)

چاند یا سورج کا حلقہ۔ بالہ۔
کُنڈل مارنا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) سانپ کا جسم کو جلیبی کی شکل میں بست کر
بیٹھنا۔ (۲) چاند کا ہلکا نشین ہونا۔ سورج کا کُنڈل میں ہونا۔
کُنڈلی - (کنڈ۔ لی) [ھ۔ ۱۔ مذ] (۱) چھوٹا ساحلقہ (۲) دور بچکر گیلا۔
(۳) جنم پترا۔ (۴) سانپ کا جلیبی کی طرح بن کر بیٹھنا۔

کُنڈلی بنانا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) پانچ پنا بنانا۔ جنم پتری بنانا۔
کُنڈلیالی - (دا۔ مٹ) ٹہیں۔ (تی)
کُنڈم - (کن۔ ڈم) (Condemned) کامور۔ صف [ناکارہ۔ نکما۔
دو کیا ہوا۔ مسترد۔

کُنڈم کرنا۔ (۱۔ محاورہ) ناکارہ کرنا۔ رد کرنا۔ ناکارہ قرار دینا۔
کُنڈنشر - (Condenser) (کن۔ ڈن۔ سٹ) [انگ۔ ۱۔ مذ] آلہ
تکثیف۔ بجائے کے تکثیف ہونے کا خانہ (انجن میں)

کُنڈی - (کن۔ ڈی) [ھ۔ ۱۔ مؤنث] دروازے کی زنجیر۔ حلقہ۔ دو۔
کُنڈی دینا۔ کُنڈی لگانا۔ (۱۔ محاورہ) زنجیر لگانا۔ دروازہ بند کرنا۔
کُنڈی کھڑکھڑانا۔ کُنڈھٹانا۔ (۱۔ محاورہ) دروازے پر زنجیر مار کر ٹلانا۔
دستک دینا۔ پھکارنا۔
کُنڈی ٹونڈنا۔ (۱۔ محاورہ) دروازہ بند کرنا۔

کُنڈیشن - (Condition) کن۔ ڈی۔ شین) [انگ۔ ۱۔ مذ] حالت۔
احوال۔

کُنڈیز - (ع۔ ۱۔ مذ) خزانہ۔ مخزن۔ گنجینہ۔ جمع دیکھو۔
کُنڈیس - (س۔ ۱۰۔ مذ) منتر کا ایک عالم راہ جسے سری کرشن نے ہلاک کیا تھا۔
کُنڈسٹر - (کن۔ ڈس۔ ٹر) [انگریزی] (Canister) کاہندہ۔ ۱۔ مذ] ٹین کا
بجس۔ پیپا۔

کُنڈوئیٹر - (کن۔ ڈو۔ وے۔ ٹر) [انگ۔ ۱۔ مذ] محافظ۔ نگراں مال۔
کُنڈوئیٹر - (Conservator)
کُنڈرت - (Concert) کن۔ ڈرت) [انگ۔ ۱۔ مذ] نغمہ و سرود

پارس بن مانا۔

کُنڈن سارنگ - (ن۔ ۱۰۔ مذ) نہایت سنہری اور زرد رنگ۔ چمکتا ہوا
سنہری رنگ۔

کُنڈن سادکنا۔ (۱۔ محاورہ) سونے چاندی کی طرح چمکانا۔
کُنڈورا - (کن۔ ڈو۔ را) [ق۔ ۱۔ مذ] دسترخوان۔

کُنڈوری - (کن۔ ڈو۔ ری) [ق۔ ۱۔ مذ] دسترخوان۔ روٹیل
پریٹنے کا رومال۔ (۲) بیوی کی صمک۔ (۳) [مذ] ایک قسم
کا جگلی گیٹا۔

کُنڈہ - (کن۔ ڈہ) [ق۔ صف] کُنڈا ہوا۔ منتقل۔
کُنڈہ کار۔ (۱) صف۔ قلم کار۔ نقش و نگار کھودنے والا۔ نسبت کار۔

کُنڈہ کرنا۔ (۱۔ محاورہ) کھودنا۔ قلم کاری کرنا۔ نقاشی کرنا۔
کُنڈہ - (کن۔ ڈہ) [ق۔ ۱۔ مذ] (۱) موٹی کڑی کا ٹکڑا۔ (۲) بندوق کی
کڑی۔ (۳) وہ کڑی کا ٹکڑا جس پر قصائی قیدہ کٹتے ہیں۔ (۴) وہ

کڑی جس میں سوراخ کر کے بچھڑوں کے پاؤں ٹھونک دیتے
ہیں (۵) تیز دیکھے کُنڈا۔

کُنڈہ تراش - (ق۔ صف) آن گڑی کڑی (۲) مہاراجا احمق۔ بے وقوف۔
نالائق۔ بے تیز۔

کُنڈھا - (کن۔ ڈھا) [ھ۔ ۱۔ مذ] شانہ۔ موٹھا۔
کُنڈھا ہلنا۔ (۱۔ محاورہ) ایک کُنڈھے سے دوسرے کُنڈھے پر بوجھ لینا۔

ڈولی اٹھانے والوں کا موٹھا ہلنا۔
کُنڈھا دینا۔ (۱۔ محاورہ) جنازے کو کُنڈھے پر لینا۔ (۲) مدد دینا۔ سہارا
دینا۔ (۳) باری باری کُنڈھے پر لینا۔

کُنڈھا ڈالنا۔ (۱۔ محاورہ) پل کا پنے کُنڈھے پر سے بجا اتار دینا۔ (۲)
تھک جانا۔ ہمت ہار دینا۔

کُنڈھا لگنا۔ (۱۔ محاورہ) بوجھ یا رگڑ کے سبب کُنڈھے کا زخمی ہونا۔
کُنڈھے چڑھانا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) بچوں کو کُنڈھے پر اٹھانا۔ (۲) پہلوانوں
کو کشتی جیتنے کے بعد کُنڈھوں پر چڑھا کر لوگوں کو دکھانا۔

کُنڈھم جنس باہر جنس پرواز - (ق۔ منتقل) ہر چیز اپنی ہم جنس کی طرف
رجوع کرتا ہے۔ اعلیٰ اعلیٰ کی طرف، ادنیٰ ادنیٰ کی طرف، اقم سے
اقم طے۔ طے بیچ سے بیچ۔

کُنڈنی - (کن۔ ڈنی) [ہ۔ ۱۔ مذ] کڑی کا وہ ٹکڑا جس پر دروازے
کی پھول لگوتی ہے۔

کُنڈی - (کن۔ ڈی) [ا۔ ۱۔ مذ] ڈھلے ہونے یا رینگے ہوئے کپڑوں
کو صفائی کرنے کا کام۔ کپڑوں کی صفائی جو موگروں کے ذریعے
سے کی جائے (۲) موگری۔ (۳) مار پیٹ۔ زور و کوب۔

کُنڈی کرنا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) موگری سے کپڑوں کی صفائی کرنا۔ (۲) استری
کرنا۔ (۳) مارنا۔ پیٹنا۔ گت بنانا۔

کُنڈی گر - (۱۔ صف) ریشمی اور عمدہ کپڑوں کو صاف کرنے والا۔
کُنڈ - (س۔ ۱۰۔ مذ) (۱) گڑھ۔ خار۔ کھڑ۔ (۲) تالاب۔ حوض۔ پانی

کجاسہ۔

کنکیشن - (Concession) (کن۔ سے۔ ش۔ن) انگ - ۱۔ مذ [ارباہت -
کنسورٹیم - (Consortium) (انگ - ۱۔ مذ) ادارہ۔ اجمن۔
کنکیشن - (کن۔ نش) [کن۔ صف] کنسورس بجین۔
کنکیشن - (کن۔ نش) [فت - ۱۔ مٹ] کردارہ افعال، نیک ہوں یا بد۔
کنکیشن - (کن۔ نش) [فت - ۱۔ مذ] آتش کدہ - (۲) بت خانہ، کفنا
 کا عبادت خانہ۔ بیودیوں کا عبادت خانہ۔
کنکشان - (کن۔ عان) [ع - ۱۔ مذ] شام کا صوبہ فلسطین، جہاں حضرت
 یوسف علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ (۲) حضرت نوح علیہ السلام کے
 بیٹے کا نام جو کافر تھا۔ (۳) فرود کے باپ کا نام۔
کنکٹ - (کن۔ ٹک) [ع - ۱۔ مذ] مٹ [۱] جانب - سمت - طرف۔
 (۲) پناہ - (۳) پندے کا بازو۔ (۴) کنارہ - ساحل - جمع :-
 الکنات۔
کنفرمڈ - (Confirmed) (کن۔ فرمڈ) [انگ - صف] مستقل۔
کنفرمیشن - (Confirmation) (کن۔ فرم۔ سے۔ ش۔ن) [انگ -
 ۱۔ مٹ] [مستقلی - استعقال - برقراری - توثیق - منظوری۔
کنفیڈریشن - (Confederation) (کن۔ نڈ۔ رے۔ ش۔ن) [انگ - ۱۔ مٹ] حلیف اور متحد ریاستیں جو اندرونی
 معاملات میں اتحاد ہوں۔
کنکٹ - (ق - ۱۔ مٹ) [۱] کنک - دھبہ - داغ - عیب - (۲) سونا - زر
کنکٹ - (ق - ۱۔ مٹ) [۱] کنک - گندم۔
کنکالا - کنکالین - (کن۔ کا۔ لا۔ کن۔ کا۔ کن) [ع - ۱۔ مٹ] - طمان -
 جلاؤ گرنی۔
کنکرنہ - (کن۔ کنہ) [ع - ۱۔ مذ] چوڑے کا سنت لکڑا۔ (۲) سنگریہ۔
کنکریچر - (مٹ - ۱۱) [ع - ۱۔ مٹ] کولر کرکٹ - الا بلا - واہیات - (۲) تختیر -
 جواہرات۔
کنکریسا - (۱) صف (نہایت سرد - تنک - بہت ٹھنڈا - کنکریسا۔
کنکری - (کنک - برنی) [ع - ۱۔ مٹ] [۱] ٹیکری - (۲) ڈلی - مکڑا۔
کنکری - (ق - ۱۔ مٹ) [ع - ۱۔ مٹ] زرخید لوڈی - محتاج۔
کنکریٹ - (Concrete) (کنکٹ - ریٹ) [انگ - ۱۔ مٹ] [۱]
 کنکراور سینٹ کا مکتب۔
کنکریلا - (کنکٹ - برنی) [ع - ۱۔ مٹ] [۱] کنکریلا ہوا - برکرا۔
کنکریلی - (کنکٹ - برنی) [ع - ۱۔ مٹ] [۱] کنکریلا کی تانبیت (مؤنٹ)
 پتھر کی زمین - سنگلاخ زمین۔
کنکٹنا - (کن۔ کن۔ نا) [ع - ۱۔ مٹ] [۱] نیم گرم - شیر گرم - سہنا سہنا۔
کنکٹوا - (کن۔ کن۔ آ) [ع - ۱۔ مذ] [۱] کاند کا بنا ہوا پنک - گڈی -
 پھل - (۲) ایک بوٹی۔

کنکوا اڑانا۔ کنکوا بڑھانا۔ (۱۔ محاورہ) پنک بازی کرنا۔ گڈی کو ہوا پر
 تانا۔

کنکوا کاٹنا۔ (۱۔ محاورہ) مخالفت کے پنک کی ڈور کو اپنی ڈور کے گھنے اور
 پنک کے زور سے اٹا دینا۔

کنکوا اڑانا۔ (۱۔ محاورہ) [۱] پنک بازی کرنا۔ پنکوں کا باہم اڑا رکھتوں
 سے کاٹ دینا یا کٹو دینا

کنکوت - (کن۔ کوٹ) [ع - ۱۔ مذ] کھڑے کھیت کا تخمینہ لگانے والا۔
کنکی - (کن۔ کی) [ع - ۱۔ مٹ] [۱] چاول کا پھرا۔ چاول کے ٹکڑے۔ (۲)

کنکیان - (کن۔ کی۔ آن) [ق - ۱۔ مٹ] [۱] چاول کے ٹٹے ہونے ٹکڑے۔
کنکان - (کن۔ کان) [ع - ۱۔ مٹ] [۱] مغل۔ محتاج۔ نادار۔ تنگ حال۔

(۲) گال کا مارا۔ فائدہ کش۔

کنگال بانکا۔ (۱۔ صف) فاقہ مست بملس شوقین۔
کنگال کر دینا۔ (مٹ - مرکب) مغل بنا دینا۔ نرو دھن کر دینا۔ محتاج
 کر دینا۔

کنگال گھر کا۔ (۱۔ صف) غریب گھر کا۔ محتاج خاندان کا۔

کنگال ہو جانا۔ (۱۔ محاورہ) مغل ہو جانا۔ محتاج ہو جانا۔ اغلاس میں گھر جانا۔
کنگانی - (کن۔ گا۔ نی) [ق - ۱۔ مٹ] [کنگ]

کنگرو - (Kangaroo) (کنگ - رز) [انگ - ۱۔ مذ] آسٹریلیا کا ایک
 جانور جس کی لمبی ٹانگیں چھوٹی اور پھلی بڑی ہوتی ہیں۔ اس کے پیٹ

میں ایک تیلی ہوتی ہے جس میں وہ اپنے بچے کو بھالیتا ہے۔

کنگرہ - (کن۔ گ۔ رہ) [ق - ۱۔ مذ] دیکھیے گگرہ

کنگری - (کنگٹ - برنی) [ق - ۱۔ مٹ] [ع - ۱۔ مٹ] [۱] زرخید لوڈی - محتاج۔
کنگری - (کنگٹ - برنی) [ع - ۱۔ مٹ] [۱] ایک قسم کی مین (پ) کپڑوں

پر لگانے کا بہترین نلکے دار فیٹہ۔

کنگڑا - (کن۔ گڑ۔ کن۔ گڑا) [ع - ۱۔ مٹ] [۱] فریہ - قوی پہل۔
کنگلا - (کنگٹ - لا) [ع - ۱۔ مٹ] [۱] کنکریلا کی تصغیر بمتغیر - مغل - تلاش۔

محتاج - نادار۔
کنگلی - (کنگٹ - برنی) [ع - ۱۔ مٹ] [۱] کنکلا کی تانبیت - فاقہ زدہ - بھوک عورت۔
 محتاج عورت۔

کنگن - (کن۔ گن) [ع - ۱۔ مذ] کلائی کا ایک زبور - دستینہ۔

کنگنا - (کنگ - نا) [ع - ۱۔ مذ] ڈورا جو ڈولہا کی کلائی پر باندھا جاتا ہے۔
کنگنی - (کنگٹ - نی) [ع - ۱۔ مٹ] [۱] کا نس - دیوار کی لگر - (۲) ایک چھوٹا

سایچن اناج۔
کنگورا - (کن۔ گور۔ کن۔ گور۔ رہ) [ع - ۱۔ مذ] [۱] طاقتور فیصل

قلعہ یا ڈوسری عایشان عمارتوں میں خوبورتی کے لیے بنا دیتے ہیں۔
 (۲) کٹی - جینہ - (۳) خوش نما جوڑی پر لگانے ہیں۔

کنگھا - (کن۔ گھا) [ع - ۱۔ مذ] [۱] بال لہجے کا اوزار جس میں دندائے ہوتے
 ہیں - شانہ - (۲) جولاہوں کا ایک اوزار جس سے بانا مٹکتے ہیں۔

کنگھی۔ (کن۔ گھٹی) (۱-۱۰-مٹ) کنگھی کی تائینٹ۔ چھوڑا کنگھا جس کے دونوں طرف دندانے جوتے ہیں۔ (۲) ایک درخت کا نام جس کے پھول میں کنگھی کے سے دندانے ہوتے ہیں۔

کنگھی چوٹی۔ (۱-صفت) آرائش۔ بناؤ سنگھار۔

کنگھی چوٹی کرنا۔ (۱-محاورہ) بناؤ سنگھار کرنا۔ بال سنوارنا۔ سرگوندھنا۔

کنگھی چوٹی میں الجھا رہنا۔ (۱-محاورہ) بناؤ سنگھار میں مشغول رہنا۔

کنگھی کرنا۔ (مضمرکب) بال بنانا۔ بالوں کو کنگھی سے سلجھانا۔

کنگھنا۔ (کن۔ م۔ نا۔ نا) [ھ۔ مضمر] بے چین ہونا۔ (۲) غڈ کرنا۔

کنگھڑہ۔ (کن۔ بن۔ نا۔ نا) [ھ۔ صفت] آکرے والا۔ (مرکبات میں استعمال ہوتا ہے جیسے تحریر کنگھڑہ۔

کنگھڑ۔ (۱- مذ) سنگڑے کی جدید ترقی یافتہ قسم جو سنگڑے سے زیادہ شیریں اور زیادہ بہتر ہے۔

کنگوار۔ (۱- مذ) ایک پودا جو کثیر دواؤں میں کام آتا ہے۔ (۲) صبح کا ہیمنہ۔

کنگوارا۔ (کن۔ وا۔ وا) [۱-۱۰- مذکر] ابن بیبا مہرود۔ مجرود۔

کنگوار پٹ (پٹا) کنگوار چھلن۔ (کن۔ وار۔ پٹ۔ کن۔ وار۔ چھلن)۔

[۱- مذ] دوشیزگی۔ لڑکی کی شادی ہونے سے پہلے کا زمانہ۔

کنگوار پن۔ کنگوار پینا۔ (کن۔ وار۔ پن۔ کنگوار۔ پینا) [۱- مذ]

دیکھیے کنگوار پٹ:

کنگوار پی۔ (کن۔ وا۔ ورنی) [ھ۔ ۱- مٹ] ابن بیبا ہی لڑکی۔ بارہ۔

کنگوار پی ارمان۔ بیبا ہی پیشیان۔ (۱- مثل) کام نہ کرنے والا تو ایس

ہیں پریشان اور کرنے والا سعیدیت میں حیران۔

کنگوار پی کوسد البتت۔ (۱- مثل) آزاد اور تجرد آدمی کے لیے ہر وقت خوشی ہے۔

کنگوار پی کھائے روٹیاں بیبا ہی کھائے لوٹیاں۔ (۱- مثل) کنگوار پی کے سنا

میں لڑکی کا خرچ پھر زیادہ نہیں ہوتا کیونکہ بیبا ہی کے قبضہ کا خرچ والدین پر پڑھ جاتا۔

کنگوال۔ (کو۔ آل) [ھ۔ ۱- مذ] چاہ۔ کھو۔

کنگوال اگاڑنا۔ (۱- محاورہ) کنگوں کی مٹی نکالنا۔ کنگوال صاف کرنا۔

کنگوال اندھا ہو جانا۔ (۱- محاورہ) کنگوں کا پانی خشک ہو جانا۔ کنگوں

کی تہہ کا بیٹہ جانا۔

کنگوال بیچا ہے کنگوں کا پانی نہیں بیچا۔ (۱- مثل) بے فائدہ تکرار اور

خواہ مخواہ محبت کا اظہار۔

کنگوال ٹوٹنا۔ (۱- محاورہ) کنگوں کا پانی کم ہو جانا۔

کنگوال چھوڑ دینا۔ (۱- محاورہ) کنگوں کا پانی چلا دینا۔ (۲) کنگوال بند

کر دینا۔ آپناشی سے باز رہنا۔

کنگوال کھوونا۔ (۱- محاورہ) کنگوال تیار کرنا۔ (۲) کسی سے بدی کرنا۔

(۳) دوسرے کے گرانے کو گڑھا کھوونا۔

کنگوال کھوونے والا۔ (۱) چاہ کن۔ (۲) مجازاً [بلائی کرنے والا۔

کنگوال (کنگوں) میں بانس ڈالنا۔ (ڈلوادینا) (۱- محاورہ) بہت

دیکھ جمال کرنا۔ نہایت ڈھونڈھنا۔

کنگوں جھانگ پڑنا۔ (۱- محاورہ) سب کا متوالا اور پاگل ہو جانا۔ اونٹ

سے لے کر اٹھانک کا مسٹ دہے ہوش بلکہ از خود فرسٹا اور دیوانہ ہو

جانا۔ کسی عقل کا بھی سلیم اور بجا نہ دینا۔

کنگوں پر سیکہ پیسا آنا۔ (۱- محاورہ) فیض کی جگہ جاکر محروم آنا۔

کنگوں جھانگنا۔ (۱- محاورہ) نہایت جستجو و تلاش کرنا۔ (۲) حیران

پریشان ہونا۔ (۳) کنگوں میں گرنا۔

کنگوں جھنکانا۔ کنگوں جھنکوانا۔ (۱- محاورہ) کنگوں کا پانی یا تہہ دکھانا۔

(مجازاً) حیران کرنا۔ آوارہ پھرانا۔ در بدر پھرانا۔ تھکا مارنا۔

کنگوں کھودتے کو کھانا تیار۔ (۱- مثل) اوروں کی بلائی کرنے والے

کو بھی نقصان اور ضرر پہنچ کر ہی رہتا ہے۔ چاہ کن لا جاہ و پیش۔

کنگوں کی مٹی کنگوں کو لگتی ہے۔ (۱- مثل) جس قدر آمد ہوتی ہے اسی

قدر خرچ بھی ہوتا ہے۔ جہاں کی کمائی ہوتی ہے وہیں صرف بھی

ہوتی ہے۔

کنگوں میں لولنا۔ (۱- محاورہ) نہایت آہستہ اور دبی آواز سے بولنا۔

قریب مرگ ہونے کی آواز۔

کنگوں میں پھینک دینا۔ (۱- محاورہ) کنگوں میں گرانا۔ (۲) ضائع کرنا۔

کنگوں میں دھیل دینا۔ (۱- محاورہ) لڑکی کی شادی کسی مری جگہ کر دینا۔

کنگوں میں ڈوب مرو۔ (۱- مثل) شرم کرو۔ بیعت کرو۔

کنگوالسا۔ (کنگوال۔ سا) [ھ۔ ۱- مذ] نواسے کا بیٹا۔

کنگوالسی۔ (کنگوال۔ سی) [ھ۔ ۱- مٹ] نواسی کی بیٹی۔

کنگوالے۔ (Convoy) [کن۔ وا۔ اسے] [۱- مذکر] (۱)

بدرق۔ (۲) فوجی دستہ یا سامان رسد (جس کے ہمراہ بدرق ہو)

کنگوالی۔ (کن۔ وا۔ تی) [ھ۔ ۱- مٹ] [۱- گھوڑے کا کال۔ (۲) کان کی بالی۔

مڑکی۔

کنگوتیاں بدلنا۔ کنگوتیاں کھڑی کرنا۔ (۱- محاورہ) گھوڑے کا دونوں

کانوں کو کھڑا کرنا۔ سچو کرنا ہونا۔

کنگوتھا۔ (کن۔ ٹو۔ ٹھا) [ھ۔ ۱- مذ] [۱- کوٹہ۔ گوشہ۔ (۲) بغسل۔ آغوش

(۳) بلا برکابھائی۔

کنگور۔ (کن۔ وڑ) [ھ۔ ۱- مذکر] [۱- وڑم جو کانوں کی جڑ میں ہوتا ہے۔

کنگور۔ (کن۔ وڑ) [ھ۔ ۱- مذکر] [۱- لڑکا۔ بیٹا۔ پسر۔ (۲) راجہ کا بیٹا۔

ٹیکا۔ شہزادہ۔ (۳) اعزازی خطاب۔

کنگوال۔ (کن۔ وول) [۱- مذکر] [۱- ایک پھول۔ گل نیلوفر۔ (۲) قنبر۔ سرخ کاغذ یا

ابرق کا پھول جس میں کوم سٹی جلاتے ہیں۔ (۳) شیشے کے ایک

نظرت کا نام جس میں شمع روشن کرتے ہیں۔

کنگول کھلنا۔ (۱- محاورہ) [۱- گل نیلوفر کا شگفتہ ہونا۔ (۲) دل کا خوش خرم

اور شاہاب ہونا۔

کنگول گٹا۔ (۱- مذ) کول ڈوڈے۔ کھانا۔ کنگول کایج۔

کنگول نہیں۔ (۱- صفت) کنگوالسی کنگول والا۔

کنو نڈا۔ دک۔ ڈن۔ ڈا، [جہ۔ صفت] ۱۵ شرمندہ۔ شرمسار۔ (۲) بنام۔
 کنوا۔ ذلیل۔ (۳) مہبی۔ ناقص۔
 کنو نڈی۔ دک۔ ڈن۔ ڈی، [جہ۔ صفت] کنو نڈا کی تائیف۔
 کنو نڈی تہی جو ہے سے کان کتر واتی ہے۔ (۱) نیش (اسماندی
 شرمسار کرتی ہے۔
 کنو نشن۔ (Convention) کنن۔ ون۔ نشن (انگ۔ ۱) مذاقاً۔
 مجلس۔ اجتماع۔
 کنو نشن۔ (Canvasser) کنن۔ دے۔ نتر (انگ۔ ۱) مذاقاً دوست کے
 حصول کے لیے کوشش کرنے والا۔
 کنہ۔ (۱) مذکر (۱) کسی چیز کی انتہا۔ نہیہ۔ حقیقت۔ (۲) (مجازاً)
 نکتہ۔ باریکی۔ بات کی تہہ۔ جطر۔ (۳) کسی چیز کی وجہ۔ طرز۔
 کنہ کو چھیننا۔ (۱) محاورہ کسی بات کی تہہ کو چھیننا۔
 کنہ نکالنا۔ (۱) محاورہ دھنی نکالنا۔ کینہ نکالنا۔
 کنہائی۔ (کنن۔ ہی۔ نی) (جہ۔ ۱) مذکر [۱۵] سری کرشن جی۔ (۲) [نوٹش]
 کھڑی فصل کا ٹھنڈے۔
 کنہیا۔ (کنن۔ ہی۔ یا) (جہ۔ ۱) مذکر [۱۵] سری کرشن جی (۲) خوبصورت۔
 لڑکا۔ [۱۶] مشرق۔
 کنہی۔ (کنن۔ ہی۔ نی) (جہ۔ ۱) صفت [۱۵] کھڑا۔ ریزہ۔ پارہ۔ الماس کا ریزہ۔
 (۲) ٹوٹے ہوئے چاول۔ (۳) خامی۔ چاولوں کا وہ حصہ جو کھانے
 سے رہ گیا ہو۔
 کنہی۔ (کنن۔ ہی۔ نی) (جہ۔ ۱) نوٹش [۱۵] حاشیہ۔ کنارہ۔ سخاوت۔ نیت۔
 (۲) کھوسے کا بازو۔ (۳) تباہی کوئی کونپلیں جو ایک دفعہ کھٹنے کے
 بعد دوسری دفعہ کھتی ہیں۔
 کنہی بانہنا۔ (۱) محاورہ پتنگ کے بازو میں دھبی بانہ کر اس کے
 دونوں بازوؤں کو ہم وزن کرنا۔
 کنہی دار۔ (۱) صفت وہ کپڑا جس کے کناروں پر کسی رنگ کی کنار
 ہو۔ کنارہ دار۔
 کنہی وانا۔ (۱) محاورہ [۱۵] قابو میں آنا۔ (۲) عاجز کرنا۔ تنگ کرنا۔
 کنہی دینا۔ (۱) محاورہ [۱۵] مطیع و فرمان بردار ہونا۔ عاجز ہونا۔ مغلوب
 ہونا۔ (۲) جھینپنا۔ لجانا۔ شرم کرنا۔ آکھ نہی کرنا۔ (۳) ڈرنا۔
 خائف ہونا۔
 کنہی کاٹنا۔ (۱) محاورہ کترانا۔ نظر بچا کر پلے جانا۔ ایک طرف ہو کر
 چلے جانا۔
 کنہی کھانا۔ (۱) محاورہ پتنگ کا ایک رخ کو بھگانا۔ کھوسے کا ایک
 طرف سے نیچا ہو کر اٹھانا۔
 کنہی۔ (ق) پاس۔ نزدیک۔ (۲) قبضے میں۔ (۳) گھر پر۔
 کنہیا۔ (کنن۔ ہن۔ یا) [س۔ ۱] صفت [۱۵] چھٹی عمر کی لڑکی بمعصومہ۔
 (۲) دوشیزہ۔ کنواری۔ (۳) بیٹی۔ دختر۔ (۴) دلہن۔ عروس۔
 (۵) چھٹی راک۔ بروج شنبہ کا ہندی نام۔ (۶) دگ دیوی۔

ک - و

کنو۔ (۲) علامت مفعول واسطے لیے۔ برائے۔
 کنو۔ (ق) [۱۵] کب۔ (۲) کون۔ کس نے۔ (۳) کہو۔ (۴) کوس۔
 کنو۔ (ف۔ ۱) مذکر۔ گلی کو چہر۔ عکتہ۔
 کنوہ کو۔ (ف۔ ۱) تابع نسل (دردرد۔ نگی گلی۔ کو چہر کو چہر۔
 کوئی۔ (ف) مار پیٹ۔ مرکبات میں استعمال ہوتا ہے جیسے میسرہ کوئی۔
 کو آٹھانا۔ (۱) محاورہ ملحق میں جب گوشت کا ٹکڑا لٹک جائے تو اسے
 درست کرنا۔
 کو آ۔ (کوز۔ وا) [جہ۔ ۱] مذکر [۱۵] لاغ۔ گاک (۲) گوشت کا وہ چھوٹا سا ٹکڑا
 جو آدمی کے ملحق میں ہوتا ہے۔
 کو آ پرئی۔ (۱) صفت کالی عورت۔ جیشن۔
 کو آ پھنسانے کی چال ہے۔ (۱) نیش (جو شیار آدمی کو دام فریب میں
 لانے کی تدبیر ہے۔
 کو آ ٹھٹھا تا ہی ہے، دھان پکتے ہی ہیں۔ (۱) نیش (۲) دشمن کے بڑا
 چاہنے سے بڑا نہیں ہوتا۔
 کو آ چلا ہنس کی چال اپنی ہی بھول گیا۔ (۱) نیش (۲) اپنی اذات سے
 بڑھ کر حوصلہ کرنے کا نتیجہ ہے کہ انسان اپنی پھلی حیثیت ہی گنوا دینا
 ہے۔
 کو آ ناگ لے گیا ناگ کو نہیں دیکھتے، کوتے کے سچے دوڑے جانے
 ہیں۔ (۱) نیش (۲) جہاں کوئی شخص جھوٹی بات کی پیروی کرتا جائے اور عقیدت کی
 طرف متوجہ نہ ہو۔ وہاں یہ مثل بولی جاتی ہے۔

کنو۔ (۲) علامت مفعول واسطے لیے۔ برائے۔
 کنو۔ (ق) [۱۵] کب۔ (۲) کون۔ کس نے۔ (۳) کہو۔ (۴) کوس۔
 کنو۔ (ف۔ ۱) مذکر۔ گلی کو چہر۔ عکتہ۔
 کنوہ کو۔ (ف۔ ۱) تابع نسل (دردرد۔ نگی گلی۔ کو چہر کو چہر۔
 کوئی۔ (ف) مار پیٹ۔ مرکبات میں استعمال ہوتا ہے جیسے میسرہ کوئی۔
 کو آ ٹھٹھا تا ہی ہے، دھان پکتے ہی ہیں۔ (۱) نیش (۲) دشمن کے بڑا
 چاہنے سے بڑا نہیں ہوتا۔
 کو آ چلا ہنس کی چال اپنی ہی بھول گیا۔ (۱) نیش (۲) اپنی اذات سے
 بڑھ کر حوصلہ کرنے کا نتیجہ ہے کہ انسان اپنی پھلی حیثیت ہی گنوا دینا
 ہے۔
 کو آ ناگ لے گیا ناگ کو نہیں دیکھتے، کوتے کے سچے دوڑے جانے
 ہیں۔ (۱) نیش (۲) جہاں کوئی شخص جھوٹی بات کی پیروی کرتا جائے اور عقیدت کی
 طرف متوجہ نہ ہو۔ وہاں یہ مثل بولی جاتی ہے۔

کوٹھی کٹھلا کو ہاتھ نہ لگانا سب کچھ آپ کا ہے۔ (ایشل) ایسے موقع پر
 رہتے ہیں جہاں کوئی مصلوبہ چیز تو نہ دے مگر زبانی کہتا جائے کہ سب
 کچھ آپ کا ہے۔
 کوٹھی وال - (دہ) صفت) ساہوکار۔ مہاجن۔ صراف۔ ہندی کا بیچ بیچا
 کرنے والا۔
 کوٹھڑ - (کوٹھڑ) [ع۔ ا۔ مذ] بہشت کی ایک نہر۔ جنت کا حوض۔
 کوٹھڑے دھلی ہونی زبان - (ا۔ مٹ) پاک اور شگفتہ زبان۔
 کوچ - (ق) کچھ۔
 کوچین - کوچہ - (ق) کچھ کا کچھ۔
 کوچ - (Couch) [انگ۔ ا۔ مذ] صوفہ۔ بنگلہ ڈی۔ سپرنگ والی
 کرسی۔
 کوچ - (Coach) [انگ۔ ا۔ مٹ] (۱) شاہی گاڑی۔ سواری گاڑی۔
 (۲) ریل گاڑی۔ (۳) آستارہ میٹل - (خصوصاً کھیلوں کا)
 کوچیان - کوچیان - (۱) مذ] گھوڑا گھوڑی چلانے والا۔
 کوچ - (۱-۵) [ذ۔ ۱] چٹا ہونے کی تانی صاف کرنے والا برش۔ (۲) [مؤنخ]
 وہ موٹا پٹھا جو آدمی کی ایڑی کے اوپر اور چوپایوں کے گلے کے نیچے
 ہوتا ہے۔ (دوسرے معنوں میں بیشتر جمع میں مستعمل ہے)۔
 کوچیں کاٹنا - (۱-۱) [معاورہ] ایڑی کے اوپر سے پاؤں کے پٹے کاٹنا۔ قدم
 کاٹ ڈالنا۔ ٹولا بنا دینا۔
 کوچ - (د۔ ۱-۱) [ذ۔ ۱] روانگی۔ رحلت۔ نقل مکان۔ ایک جگہ سے دوسری
 جگہ جانا۔
 کوچ بول دینا - (۱-۱) [معاورہ] روانگی کا حکم دینا۔ روانہ ہونا۔
 کوچ کا دل - (۱-۱) [ذ۔ ۱] روانگی کا دل۔ موت کا دل۔
 کوچ کرنا - (۱) روانہ ہونا۔ سفر کرنا۔ (۲) مڑنا۔ وفات پانا۔ (۳) رخصت
 ہونا۔ وداع ہونا۔
 کوچ مقام - (ق۔ ع۔ ا۔ مذ) چلنا اور ٹھہرنا۔
 کوچیا - (کوچیا) [ع۔ ا۔ مذ] کچھ کا۔ کسی کو کدرا چیز یا تلوار وغیرہ کا ٹھوڑا
 سادہ نم جو آہ پارہ نہ ہوا ہو۔
 کوچیا (کوچیے) دینا - (مارنا) [۱-۱] [معاورہ] (۱) گودنا۔ زخم ڈالنا (۲)
 طعنے مہینے دینا۔
 کوچیا - (کوچیا) [ا۔ ۱-۱] [مذ۔ ۱] اہلی کی برہمنی سے مراد کے ساتھ پس
 کر گھٹنے ہیں۔
 کوچیک - (ق۔ مٹ) چھوٹا۔ خرد۔ کوتاہ۔ ننھا۔ جھنسن۔
 کوچینا - (کوچی - نا) [ع۔ مٹ] چھوٹا۔ چھری یا کلنٹے سے گودنا۔
 کوچیز - (کوچی) [ق۔ ا۔ مذ] کوئی تصنیف۔ گلی۔ مملہ۔ باڑہ۔ تنگ ماہ۔
 کوچہ بکوچہ - (ق۔ مٹ) تاج فعلی۔ گلی گلی۔ جھلے جھلے۔ کوچو۔
 کوچہ بندی کرنا - (۱-۱) [معاورہ] مٹوں یا گلیوں کی مد
 کوچہ گردی - (ق۔ مٹ) آوارہ گردی۔ گلیوں کو چھانتے پھرنا۔
 کوچہ گردی کرنا - (۱-۱) [معاورہ] آوارہ گردی کرنا۔ آوارہ پھرنا۔ خواب

خستہ ہونا۔ فاری تباہی کرنا۔
 کوچی - (کوچی) [ع۔ ا۔ ۱-۱] [مٹ] سفیدی کرنے یا سونے چاندی کا برش۔
 کوچو - (۱-۵) [مٹ] جست۔ جھلانگ۔
 کوچو پڑنا - (۱-۱) [معاورہ] کسی معاملے میں بے جا دخل دینا۔
 کوچو پھاندا - (۱-۱) [مٹ] اچھل کود۔ دوزخ ڈھوپ۔
 کوچو دک - (کوچو - دک) [ق۔ ا۔ مذ] طفل۔ لڑکا۔ بچہ۔ جمع - کوچوکان۔
 کوچو دن - (کوچو - دن) [ق۔ ا۔ مذ] (۱) است زنگار۔ بارش گھوٹا۔ (۲)
 (صفت) گندہنم۔ ٹورکھ۔ ناوان۔ اہمن۔
 کوچو دنا - (کوچو - نا) [ع۔ مٹ] (۱) اچھلنا۔ چھانڈنا۔ چھلانگیں مارنا۔ (۲) نہایت
 خوش ہونا۔ خوشی میں پھولنا۔ سمانا۔ (۳) گھنٹہ بھوننا۔ اترا نا۔
 کوچو دل - (کوچو - دل) [ع۔ ا۔ مٹ] ایک قسم کا سخت قند۔
 کوچو دلانا - (۱-۱) [معاورہ] سخت کام لینا۔ کھٹن کام کرنا۔
 کوچو دل دے کر پڑھنا - (۱-۱) [معاورہ] منت پڑھنا۔ کم خرچ کر کے پڑھنا۔
 ناقص تعلیم پانا۔
 کوچو دل کا بھارت کن بھارتوں میں مریا ساس کن ساسوں میں -
 (۱-۱) [یشل] دُور کے رہنے کا کیا اعتبار۔
 کوچو دیاں - (ق۔ ۱-۱) [مٹ] تھلا بازیاں۔
 کوچو - (Code) [انگ۔ ا۔ ۱-۱] [مذ] (۱) مجوزہ قوانین۔ (۲) اسٹاروں کا
 کلام۔ تفسیر لغت۔ بری اور بحرئی فوجی اشاروں کے ضوابط
 کا مجموعہ۔
 کوچو - (Cover) [دک۔ ۱-۱] [انگ۔ ا۔ ۱-۱] [مذ] (۱) ڈھکن۔ ڈھکن۔ برش
 پینے۔ (۲) پوشش۔ غلاف۔ (۳) کتاب کا پتلا۔ مقوی۔ دفنی۔
 سرورق۔
 کوچو - (Corps) [انگ۔ ا۔ مٹ] [مٹ] فوج کا دستہ۔ (جو کسی خاص کام
 کے لیے متین کیا جاتے)۔
 کوچو - (۱-۵) [مٹ] کنارہ۔ حاشیہ۔ کٹی۔ ہرا۔ سجات۔ مغزی۔
 کوچو دینا - (۱-۱) [معاورہ] (۱) کہنی دینا۔ (۲) معاہدہ ہونا۔ مغلوب ہونا۔
 کوچو کسر - (۱-۱) [مٹ] کسی نقص۔ عیب۔ کمی بیشی۔ برائی مصلحتی۔ تصور۔
 قباحت۔
 کوچو کسر نکالنا - (۱-۱) [معاورہ] گھاس پھوس نکالنا۔ کمی پورا کرنا۔ نقص دُور کرنا۔
 عیب دُور کرنا۔
 کوچو - (ق۔ مٹ) اندھا۔ نابینا۔ بچ - کوچو دل۔
 کوچو باطن - کوچو دل - (ق۔ مٹ) گندہنم۔ بچ طبع۔ کم ذہن۔ نامسم۔
 کوچو دل - (کوچو - دل) [ق۔ ا۔ مذ] (۱) گودنا۔ زخم ڈالنا (۲)
 طعنے مہینے دینا۔
 کوچو - (ق۔ مٹ) چھوٹا۔ خرد۔ کوتاہ۔ ننھا۔ جھنسن۔
 کوچو - (کوچی - نا) [ع۔ مٹ] چھوٹا۔ چھری یا کلنٹے سے گودنا۔
 کوچو - (کوچی) [ق۔ ا۔ مذ] کوئی تصنیف۔ گلی۔ مملہ۔ باڑہ۔ تنگ ماہ۔
 کوچو بکوچہ - (ق۔ مٹ) تاج فعلی۔ گلی گلی۔ جھلے جھلے۔ کوچو۔
 کوچو بندی کرنا - (۱-۱) [معاورہ] مٹوں یا گلیوں کی مد
 کوچو گردی - (ق۔ مٹ) آوارہ گردی۔ گلیوں کو چھانتے پھرنا۔
 کوچو گردی کرنا - (۱-۱) [معاورہ] آوارہ گردی کرنا۔ آوارہ پھرنا۔ خواب

کوزنک - دن - صفت، نمک حرام، ناخاکھا۔ احسان فراموش۔
 کوزنہ - دن (۱۰ - مٹھ) (۱) دھوکا - فریب (۲) ظلم - دشمنی۔
 کوزہ (۱ - مذ) دیکھیے کول۔
 کورا - رکو (۱) - صفت [نیا - غیر مستقل (۲) - سادہ - صاف - بے لگ -
 (۳) محض جاہل - احمق (۴) نادان - (۵) غریب بغل - تنگ دست -
 (۶) بے مروت - بے وفا - رکھا - (۷) خالص - بالکل -
 کورا بچینا - (۱) محاورہ) صاف بچنا - بال بال بچنا -
 کورا برتن - (۱) - (۲) غیر مستقل برتن - (۳) [مجازاً] دو تیز راہ کی -
 کوراری بچی -
 کوراپنڈا - (۱) - (۲) بی بیہوش عورت - کنوارا - کنواری -
 کورا جانا - (۱) - (۲) محاورہ) خالی ہاتھ جانا -
 کورا رکھنا - (۱) - (۲) محاورہ) کچھ نہ کھانا - (۳) بالکل محروم رکھنا - وعدہ
 وفا نہ رکھنا -
 کورارہ جانا - (۱) - (۲) محاورہ) بالکل محروم رہ جانا - (۳) کچھ حاصل نہ ہونا -
 (۴) جاہل رہنا -
 کوراکاغز - (۱) - (۲) مذ) بے لکھا کاغذ - سادہ کاغذ -
 کورے آسترے سے سرٹھنڈانا (نوٹہ ٹا) - (۱) - (۲) محاورہ) نہایت
 تکلیف دینا - سخت مزادینا - (۳) ٹوٹ لینا - سب کچھ چھین
 لینا -
 کوراکھل جانا - (۱) - (۲) محاورہ) بے داغ بچ جانا - صاف بچ جانا -
 کورانہ - رکو - (۱) - (۲) [ن] - صفت [انہول کی طرح -
 کورٹش - (Court) (۱) [انگ - (۱) - مذ] (۲) نصرت ہی - محل سرا - (۳)
 کچہری - عدالت - دبار - (۴) ٹیس کیلئے کامیدان -
 کورٹ آف وارڈ - (Court of Ward) (۱) [انگ - (۱) [مٹھ]
 نابالوں کی جائیداد کے انتظام کا سرشتہ -
 کورٹ انسپیکٹر - (Court Inspector) [انگ - (۱)
 مٹھ] پولیس کا وہ نمبردار جو سرکار کی طرف سے عدالت میں
 مقدمات کی پیروی کرتا ہے -
 کورٹ شپ - (Courtship) [انگ - (۱) - مذ] شادی سے
 قبل لڑکے لڑکی میں راز و نیاز -
 کورٹ مارشل - (Court Martial) [انگ - (۱) - مذ] جنگی
 عدالت - فوجی عدالت -
 کورٹرا - (۱) - (۲) [مٹھ] کورٹرا -
 کورس - (Course) [انگ - (۱) - مذ] (۱) تعلیم کا زمانہ - (۲) درسی
 کتاب - (۳) گھوڑوں کا میدان -
 کورس - (Coarse) [انگ - صفت] ادنیٰ - معمولی - گھٹیا موٹا
 کورس کلا تھ - ادنیٰ - موٹا اور کھردرا کپڑا -
 دبلی کپڑا -

کورس - (Chorus) کورس [انگ - (۱) - مذ] وہ نمبر جو سبیل
 کراہیں - (۲) گانے والوں کی جماعت - بچی - طائفہ -
 کوزہ کوزہ - (۱) - (۲) [مٹھ] کوزے کے پلے کولٹ کی آواز -
 کورم - (Quorum) (۱) [انگ - (۱) - مذ] [انگ] کی وہ تعداد جن
 کی موجودگی سے جلسہ کی کارروائی جائز اور موثر ہو سکتی ہے -
 کورنش - (کورنش) [ن] - (۱) کورنش کا مقصد - (۲) مٹھ [انگ] جھکاؤ -
 تسلیم - بندگی - آداب - منجھک کر سلام کرنا -
 کورنش بجالانا - (۱) - (۲) محاورہ) آداب بجالانا - تسلیم عرض کرنا - بندگی کرنا -
 کورنشات - (کورنش) [ن] - (۱) مٹھ [انگ] کورنش کی فارسی تبع
 بقاعدہ عربی (خلافت فصاحت)
 کورو - (کورو) [س] [انگ - (۱) - مذ] دھرتی راشٹر کے بیٹے - مہا بھارت
 کی لڑائی میں یہی پانڈوؤں کے مقابلہ پر تھے -
 کورو - (کورو) [س] [انگ - (۱) - مذ] غلے وغیرہ کی کولٹی یا جھانڈ - (۲) شہتیر -
 کوری - (کوری) [ن] - (۱) مٹھ [انگ] چاہیں -
 کوری - (کوری) [ن] - (۲) مٹھ [انگ] کورائی تانیٹ -
 کوری آنکھ سے دیکھنا - (۱) - (۲) محاورہ) بے حیائی سے دیکھنا - نڈر ہو کر دیکھنا -
 کوریڈار - (Corridor) کوریڈار [انگ - (۱) - مذ] [انگ] غلام -
 گردش - متدد دیکھنے کے سلسلے کا راستہ - (۲) کسی ملک کی مقبوضہ
 زمین کا وہ تنگ قطعہ جس کی دوسرے ملک کے علاقے میں سے
 گزرنا ہو -
 کورٹ - (ق) - صفت) دیوانہ - بے وقوف - گنوار - احمق -
 کورٹا - (کوٹا) [انگ - (۱) - مذ] بڑی کولٹی -
 کورٹے کر ڈالنا - (۱) - (۲) محاورہ) بیچ دینا - ارزاں بیچ ڈالنا - دام کھرے کرنا -
 کورٹا - (کوٹا) [انگ - (۱) - مذ] [انگ] چاہک - (۲) تازیانہ - (۳) تنبیہ - کوشالی -
 کورٹا لگانا - (۱) - (۲) محاورہ) چاہک مارنا - تازیانہ لگانا - (۳) تنبیہ کرنا - کوشالی
 کرنا -
 کورٹا - (کوٹا) [انگ - (۱) - مذ] [انگ] گھاس چھوٹس - خس و خاشاک - (۲) خراب اور
 کچی چیز - الا بلا -
 کورٹا کرکٹ - (۱) - (۲) مذ] گھاس چھوٹس - رومی اور کچی چیز -
 کورٹا کرکٹ سمجھنا - (۱) - (۲) محاورہ) فضول خیال کرنا - کوئی وقعت نہ دینا -
 کورٹا کرنا - کورٹا پھیلانا - (۱) - (۲) محاورہ) خس و خاشاک پھیلانا - کورٹا کرکٹ
 بکھیرنا -
 کورٹھ - (۱) - (۲) [مٹھ] برص - جذام - ایک مرض جو فساد خون سے پیدا ہوتا ہے -
 اس میں یا تو بدن پر سفید دھبے پڑ جاتے ہیں یا اعضا پر درم ہو کر
 انگلیاں ویڑو گرے لگتی ہیں -
 کورٹھ پھینکا (چونا) - (۱) - (۲) محاورہ) برص یا جذام کی شدت سے جا بجا زخم ہو
 کر بننے لگنا -
 کورٹھ میں کھاج - (۱) - (۲) [مٹھ] آفت پر آفت - تکلیف میں تکلیف - ایک
 تو کورٹھ اس پر پھیل اور بھی جذاب جان -

کوڑھی کو نہ پوچھنا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) ذرا قدر نہ کرنا۔ مفت میں کام نہ لینا۔ (۲) نہایت حقیر اور ذلیل جاننا۔
 کوڑھی کی بات ہو جانا۔ کوڑھی کی عزت ہو جانا۔ (۱۔ محاورہ) بات بڑھ جانا۔ کچھ عزت نہ رہنا۔ آبرو نہ رہنا۔
 کوڑھی تے تین تین بگنا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) نہایت انداز اور سستا بگنا۔ (۲) کمال بے قدری اور حقیر ہونا۔
 کوڑھی کے کام کا نہیں۔ (۱۔ محاورہ) (مض) نیک اور ناکارہ ہے۔ بالکل بے معرفت اور بے کار ہے۔
 کوڑھی کے ٹول بگنا۔ (۱۔ محاورہ) نہایت سستا اور انداز بگنا۔
 کوڑھی نہ ملنا۔ (۱۔ محاورہ) کچھ نہ ملنا۔
 کوڑھی نہیں گانٹھ میں چلنے باغ کی میسر۔ (۱۔ مثل) کم مالگی کی حالت میں بڑے سوسے کریموالے کی نسبت بولتے ہیں۔
 کوڑھیوں کے ٹول بگنا۔ (۱۔ محاورہ) نہایت انداز اور بے قدری سے فروخت ہونا۔ سستا بگنا۔
 کوڑھیوں کے ٹول نہ لینا۔ (۱۔ محاورہ) ناکارہ اور بے قدر سمجھنا۔ مفت بھی نہ لینا۔
 کوڑھے کر ڈالنا۔ (۱۔ محاورہ) دام کھرے کرنا۔ اونے پونے بیچ ڈالنا۔
 کوڑھیا۔ (ک۔ و۔ ڈ۔ یا) (۱۔ مثل) چھوٹا دروازہ۔ کھڑکی کا پٹ۔
 کوڑھیا لا۔ (ک۔ و۔ یا۔ لا) (۱۔ مثل) (۱) ایک قسم کا سفید چتھیوں والا زہریلا سانپ۔ (۲) ایک بوٹی۔ (۳) مالدار۔ دولت مند۔ امیر۔
 کوڑھ۔ (د۔ ص۔ ص۔) خمیدہ۔ کھڑا۔
 کوڑھ پشنت۔ کوڑھ پشنت۔ (د۔ ص۔ ص۔) خمیدہ۔ پشنت۔ کھڑا۔
 کوڑھ۔ (ک۔ و۔ ڈ۔) (ک۔ و۔ ڈ۔) (۱) ڈونگا۔ (۲) ٹنگی۔ (۳) مصری کے گول گل ڈے۔ (۴) مٹی کا بستن۔ (۵) مٹی کا آبخورہ۔
 کوڑھ گر۔ کھار۔ کاسہ گر۔ کلال۔
 کوڑھ نہایت۔ (د۔ و۔ ۱۔ مثل) مصری کا کوڑھ۔
 کوڑھ سے ہیں دریا بند کرنا۔ (۱۔ محاورہ) کسی بڑے مضمون یا بیان کو نہایت مختصر کر کے لکھ دینا کہ اختصار بھی ہو جائے اور مطلب بھی فوت نہ ہونے پائے۔
 کوڑھیاں۔ (ک۔ و۔ یاں) (۱۔ مثل) مٹی کے چھوٹے آبخورے۔
 کوش۔ (۱۔ ۱۔ ط۔) راستہ کی ایک حدیقینہ۔ فرسنگ۔ تین ہزار گز کی لمبائی۔ سنگ نشان جو ہر فرسنگ پر ہوتا ہے کہ وہ ۵۰۔ ۱۰۰ [آرا] آستین کا کٹ۔
 کوس نیلی، بابل پاسبی۔ (۱۔ مثل) کام کے شروع ہوتے ہی ہمت ہار دینا۔ تنک جاننے کا اظہار کر دینا۔ بڑا طبل۔ دھولیا۔
 کوش۔ (د۔ و۔ ۱۔ ط۔) نقارہ کلال۔ دامہ۔ بڑا طبل۔ دھولیا۔
 کوش برعلت۔ (د۔ و۔ ۱۔ ط۔) کوچ کا نقارہ۔ روانگی کی گھنٹی۔
 کوش بہن الملک۔ (د۔ و۔ ۱۔ ط۔) بڑائی کا ڈنگا۔ کُن ترائی۔
 کوسا۔ (ک۔ و۔ سا) (۱۔ ط۔) دھاتے پر بنا جھلا کھتا۔

کوڑھ۔ (د۔ ص۔ ص۔) مودک۔ بے وقوف۔ احمق۔
 کوڑھ پن۔ کوڑھ پٹنا۔ (۱۔ مذ۔) بریلنگی۔ بدتمیزی۔ بے وقوفی۔
 کوڑھ منفر۔ (د۔ ص۔ ص۔) بے وقوف۔ کند ذہن۔ ابل۔
 کوڑھی۔ (ک۔ و۔ ص۔) (۱۔ مذ۔) صفت [جدائی] مجذوم۔ کوڑھ۔ مریض۔
 کوڑھی کے جوں نہیں پڑتی۔ (۱۔ مثل) جو خود ملکیت زدہ ہے جس پر کیا آفت آئے۔ دراصل کوڑھی کا خون خراب ہو جاتا ہے جسے جوں بھی پینے کے لائق نہیں سمجھتی۔
 کوڑھی۔ (ک۔ و۔ ی۔) (۱۔ مذ۔) مثل [ایک بیبی۔] نہیں۔
 کوڑھی۔ (ک۔ و۔ ی۔) (۱۔ مذ۔) مثل [آخر ہر۔] ایک قسم کا چھوٹا سا کھجورادنی کے کام بھی دیتا تھا۔ (۲) سینے کی ہڈی جو سر پر ہرے کی طرح اونچی ہے۔ (۳) کٹاری کی کوک۔ (۴) (مجازاً) روپیہ۔ دولت مند ذلیل۔ (۵) جتہ۔ دھڑی۔ پانی۔
 کوڑھی بھر۔ (۱۔ ص۔ ص۔) مٹھڑا سا۔ ذرا سا۔
 کوڑھی پاس نہ ہونا۔ (۱۔ محاورہ) نہایت غلٹ اور ننگدست ہونا۔
 کوڑھی پھرننا۔ (۱۔ محاورہ) چند آدمیوں کا کسی امر پر مشتق اور دم طے ہونا۔
 کوڑھی پھیر کرنا۔ (۱۔ محاورہ) بہت سے پھیرے کرنا۔ بار بار آنا جانا۔
 کوڑھی دانتوں سے اٹھانا۔ (۱۔ محاورہ) بہت کج بولی کرنا۔
 کوڑھی کا کر دینا۔ (۱۔ محاورہ) بے وقت کر دینا۔ بے عزت کر دینا۔
 کوڑھی کا مال نہیں۔ (۱۔ محاورہ) (مض) نکتا ہے۔ بے حقیقت ہے۔
 کوڑھی کا ہوجانا۔ (۱۔ محاورہ) نکتا اور خراب ہوجانا۔ کام کا نہ رہنا۔ لفظوں سے کرجانا۔
 کوڑھی کا آدمی۔ (۱۔ مذ۔) حقیر و ذلیل آدمی۔ بیکار اور نکتا آدمی۔
 کوڑھی کفن کو نہ ہونا۔ (۱۔ محاورہ) نہایت غلٹ اور محتاج ہونا۔
 کوڑھی کوڑھی۔ (۱۔ مثل) (۱) ایک ایک کوڑھی۔ (۲) ذرا ذرا جہ جہ۔
 کوڑھی کوڑھی ادا کرنا۔ (۱۔ محاورہ) ایک ایک جہ جہ چکا دینا۔ دام دام بے باقی کر دینا۔
 کوڑھی کوڑھی بھر پانا۔ (۱۔ محاورہ) کُل وصول پانا۔
 کوڑھی کوڑھی پر جان دینا۔ (۱۔ محاورہ) بہت کمزور ہونا۔
 کوڑھی کوڑھی پر داشت رکھنا۔ (۱۔ محاورہ) بہت لالچی ہونا۔
 کوڑھی کوڑھی ہوننا۔ (۱۔ محاورہ) مٹھڑا مٹھڑا روپیہ جمع کرنا۔ نہایت کفایت شماری اور کج بولی سے پس انداز کرنا۔
 کوڑھی کوڑھی کا حساب۔ (۱۔ مذ۔) چھوٹی سے چھوٹی رقم کا حساب کمل حساب۔ اتنا حساب۔
 کوڑھی کوڑھی کو تنگ (حیران) ہونا۔ (۱۔ محاورہ) نہایت ننگدست ایک ایک پیسے کے لیے حیران و پریشان ہونا۔
 کوڑھی کوڑھی لینا۔ (۱۔ محاورہ) سب کچھ وصول کرنا۔
 کوڑھی کوش دوڑنا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) نہایت لالچی اور حرص ہونا۔ ایک ایک کوڑھی کے لیے کوس بھر کا کچھ لگانا۔ (۲) نہایت محنت و مشقت کرنا۔

کوسا کافی۔ کوسا کاسی۔ (۱۔ مذ) کوسا۔ دماغے پر۔ پھنکار۔
 کوشنا۔ (کوش۔ نا) [آہ۔ مص] دماغے بدورینا۔ بڑا بھلا گنا۔ (۲) پیلٹنا۔ ماتم
 کرنا (۳) (مذ) دماغے بد۔
 کوشنا لگ جانا۔ (۱۔ محاورہ) بد دماغا کا اثر جونا۔
 کوشنگ۔ (دق۔ صفت) بد شجرت۔
 کوسوں بھاگنا۔ (۱۔ محاورہ) (۱۱) دور چلے جانا۔ الگ رہنا۔ (۱۲) ازلہ خضر
 کرنا۔
 کوسوں تنگ۔ (۱۔ تابع فعل) دُور تنگ۔
 کوسوں دُور۔ (۱۔ تابع فعل) بہت دُور
 کوسے جنین ایسے مری۔ (۱۔ مثل) جن کو بد دماغی جاتی ہے وہ زندہ
 رہتے ہیں اور جن کو دماغی جاتی ہے وہ مر جاتے ہیں۔
 کوش۔ (دس۔ ۱۔ مذ) (۱۱) خزانہ۔ (۱۲) غنیمت۔ (۱۳) ڈکٹری۔ لغت۔ (۱۴) میاں۔
 نیام۔ خانہ۔
 کوش۔ (دق۔ ۱۔ مثن) بغیر اڑی کا بھرتا۔ سیلپر۔
 کوش۔ (دق۔ صفت) برواشت کرنے والا۔ بھیلنے والا۔ (مرکبات میں
 مستعمل ہے) جیسے سَم کوش۔
 کوشال۔ (دک۔ مثن) [دق۔ صفت] کوشش کرنے والا۔
 کوشش۔ (دک۔ مثن) [دق۔ ۱۔ مثن] (۱۱) سعی۔ جدوجہد۔ (۱۲) دوڑ دھواؤ۔
 (۱۳) نقد۔ (۱۴) شہتیر۔ (۱۵) پیروی۔
 کوشش کرنا۔ (مص مرکب) جدوجہد کرنا۔ ہاتھ پاؤں مارنا۔ دوڑ دھواؤ
 کرنا۔
 کوشنگ۔ (دک۔ شکست) [دق۔ ۱۔ مذ] قصر۔ محل۔ ایران۔ اونچی اور بلند
 عمارت۔ راج مندر جمع۔ کوشنگا۔
 کوشنی۔ (دکوشنی) [دق۔ ۱۔ مثن] برواشت کرنا۔ جینا۔ (۱۳) محنت کرنا۔
 کوشش کرنا (مرکبات میں مستعمل ہے)
 کوفت۔ (دق۔ ۱۔ مثن) (۱) صدر۔ آزار۔ آسیب۔ (۲) [آر] درد۔ دکھ۔
 سختی۔ مصیبت۔ (۳) غم۔ رنجش۔ (۴) ٹھکن۔ نکال۔
 کوفت اٹھانا۔ (۱۔ محاورہ) ملکیت یا تکلیف برواشت کرنا۔
 کوفتر۔ (دکوت۔ مثن) [دق۔ صفت] (۱) آسیب رسیدہ۔ رنج دیدہ (۲)
 کوٹے جو قیصر کے گول کباب جو شور بے میں ڈالنے ہیں۔ جسے ب۔
 کوٹنگاں۔
 کوفتر بختہ۔ (دق۔ تابع فعل) کوٹ چمان کر۔
 کوفتر لاناں تہی کوفتر است۔ (دق۔ مثن) دکھی اور غریب کے لیے
 شوکھی روٹی بھی غنیمت ہے۔
 کوئی۔ (دکوت۔ فی) [دق۔ صفت] (۱) عراق کے شہر کوفہ سے منسوب۔ (۲)
 (مذکر) کوفہ کا باشندہ۔ (۳) [مجازاً] (صفت) بے وفا۔
 کوگوت۔ (دق۔ ۱۔ مثن) کچی سلاخی۔ بے بے ٹانگے۔ بجنید۔
 گوگت۔ (دق۔ ۱۔ مثن) (۱) آواز بلند۔ صدارتے بلند۔ (۲) [آر] سرلی آواز۔
 ترانہ۔ (۳) قمری، فاختہ اور کوسے کی آواز۔ (۴) پیچ۔ شور۔

کلاری۔ (دق۔ ۱۔ مذ) آہ نالہ۔ (۲) گھڑی، گھنٹے یا باجے وغیرہ میں
 چابی دینا۔
 کوگت۔ (Coke) [انگ۔ ۱۔ مذ] ایک قسم کا کوئلہ جو کول سے تیار
 کرتے ہیں یہ دھواں نہیں دیتا۔
 کوگت شاستر۔ (۱۔ ۱۔ مذ) وہ کتاب جس میں عورتوں کی تیس اور عورتوں
 کے آسنوں کے ڈھنگ لکھے ہیں۔ اس کتاب کے مصنف کا نام کوگ
 تھا۔ اس پر اس کتاب کا نام "کوگ شاستر" رکھا گیا۔
 کوگ مارنا۔ (۱۔ محاورہ) پیچ مارنا۔ (دق)
 کوگا۔ (دکوت۔ ۱۔ ۱۔ مذ) سکوں کے اس فرقے کا نام ہے بھائی رام سنگھ دھمی
 نے قائم کیا تھا۔
 کوگا۔ (دکوت۔ ۱۔ ۱۔ مذ) چھوٹی سی میخ۔ باریک کیل۔
 کوگا بلی۔ (دکوت۔ ۱۔ ۱۔ مذ) گل نیلوفر۔ کنول۔
 کوگت۔ (دکوت۔ ۱۔ ۱۔ مذ) روشن تارہ۔ بڑا تارہ۔ محض ستارہ۔
 کوگتہ۔ (دکوت۔ ۱۔ ۱۔ مذ) (۱) ستارہ۔ (۲) جماعت۔ (۳) بھوجیا۔
 (۴) شان و شکوہ۔ (۵) شاہی جوس۔ جیلو۔
 کوگتہ۔ (دکوت۔ ۱۔ ۱۔ مذ) گنا۔ سنگ۔
 کوگتہ لیس کرنا۔ (۱۔ ۱۔ مذ) ذرا سستا۔ بہت کم آرام لینا۔ بہت
 کم بھرا۔
 کوگتہ چندی۔ (دق۔ ۱۔ مثن) ایک جنگلی بوٹی جس کے پتوں کو پیس کر سنگ
 گزیدہ کے زخم پر لپکھتے ہیں۔
 کوگلا۔ (دکوت۔ ۱۔ ۱۔ مذ) [کس۔ ۱۔ مثن] (۱) کوئل۔ (۲) ہڈ ہڈ۔
 کوگلاش۔ (دکوت۔ کل۔ تاش) [دق۔ ۱۔ مذ] بادشاہ کا درودھ شریک بھائی۔
 کوگلکس کلین۔ (Ku-Klux-Klan) کوگ۔ کس۔ ک۔ لینن
 [انگ۔ ۱۔ مثن] امریکہ کی جنوبی ریاستوں کی ایک تحفید انجمن جس
 کا مقصد امریکہ سے چھٹیوں کو نکالنا ہے۔
 کوگن۔ (دق۔ ۱۔ ۱۔ مذ) (۱) آلو۔ (۲) پکا ٹھنڈا ناچ۔
 کوگتا۔ (دکوت۔ نا) [دق۔ مص] کچی سلاخی کرنا۔ ٹنگر ٹھاننا۔ دھاگا ڈالنا۔
 کوگتا۔ (دکوت۔ نا) [دق۔ مص] [دق۔ ۱۔ ۱۔ مذ] چھینا۔ چلانا۔ شور کرنا۔ (۲) کوئل کا برلنا۔
 (۳) گھڑی گھنٹے یا باجے میں چابی دینا۔ (۴) کلاہنا۔ درد کی آواز نکالنا۔
 کوگتا۔ (دکوت۔ نا) [دق۔ ۱۔ مثن] پوست بخشنا ش کا ڈوٹا۔
 کوگتہ۔ (دکوت۔ فی) [دق۔ صفت] (۱) چھوٹا۔ ننھا۔ (۲) ادنی درجہ کا۔ گھٹیا۔
 کوگتہ۔ (دکوت۔ فی) [دق۔ ۱۔ مذ] ایک رنگ جو شہاب، لاجورد اور پتھر کی
 سے تیار ہوتا ہے۔
 کوگو۔ (دکوت۔ کو) [دق۔ ۱۔ مثن] فاختہ کی آواز۔ قمری کی آواز۔
 کوگو۔ (دکوت۔ کو) [دق۔ ۱۔ مثن] کوگ۔ زراعت۔ (۲) بچوں کو ڈرانے کی آواز۔
 کوگو۔ (Cocoa) (دکوت۔ کو) [انگ۔ ۱۔ مثن] ایک قسم کا سفوف جو
 ایک درخت کے بیجوں سے تیار کیا جاتا ہے۔ (۲) ایک قسم کی چائے
 جو اس سفوف سے تیار کی جاتی ہے۔
 کوگو۔ [دق۔ ۱۔ مذ] (۱) اناک بیٹا۔ دودھ پلانے والی کالوگا۔ برادر رضاعی۔

دودھ شریک جمانی۔ (۲) [مست] آنا کی بیٹی۔ دودھ شریک بہن۔

گوکھ۔ (۱۔ ۱۔ ۱) پٹ۔ شکم بطن۔ نیچے کی وہ جگہ جہاں ہڈی نہیں ہوتی۔ (۳) عمل گرہ (۴) مجازاً۔ اولاد۔

گوکھ آباد رہے۔ (۱۔ ۱) دعا بچے جیتے رہیں۔

گوکھ اچھڑ جانا۔ (۱۔ ۱) عمارت (۲) عمل کا گر جانا۔ عمل کا قرار نہ پانا۔ عمل نہ رہنا۔ (۲) اولاد کا مر جانا۔ اولاد کا زندہ نہ رہنا۔

گوکھ بند۔ (۱۔ ۱) صفت) بانجھ۔ عقیم۔

گوکھ جلی۔ (۱۔ ۱) صفت) وہ عورت جسے بچوں کے مرنے کا صدر پہنچا ہو۔

گوکھ سے ٹھنڈی ہے۔ (۱۔ ۱) مثل) اولاد سے خوش ہے۔ اولاد والی آج۔

گودھیری ہے۔

گوکھ ماسی جانا۔ (۱۔ ۱) عمارت) بانجھ ہو جانا۔ عمل کے قابل نہ ہونا۔

گوکھ مانگ بھری پڑی رہے۔ (۱۔ ۱) عمارت) تنہاری اولاد اور خاوند زندہ و سلامت رہے۔ گود بھری اور سہانگی مینی رہو۔ (دعا ہے)۔

گوکھ مانگ سے ٹھنڈی ہونا۔ (۱۔ ۱) عمارت) آل اولاد اور خاوند سے خوش ہو کر اس کا شکہ دینا۔

گوکھ کی آج۔ (۱۔ ۱) صفت) مادی محبت۔

گوکھیں لگنا۔ (۱۔ ۱) عمارت) مجوک کے مارے کوکھوں کا خالی معلوم ہونا۔ بھوکا ہونا۔

گوکھیں کوکھ۔ (۱۔ ۱) ذوق) زار و زار رونا۔ دعا ٹہری مارنا۔

گوکھنی۔ (کو۔ ک۔ ائی) [آر۔ ۱۔ ۱] صفت) ایک قسم کا ادوارنگ۔ کوکھی رنگ۔

گوکی۔ (۱۔ ۱) صفت) دودھ شریک بہن۔ گوکھ کی تائیرٹ۔

گوکین۔ (Cocaine) (کو۔ کین) [انگ۔ ۱۔ ۱] صفت) ایک نشہ آور اور بے حس کر دینے والی دوا۔

کوٹان۔ (۱۔ ۱) مذ۔ (۱) لغت۔ نوالہ۔ (۲) اناج کی وہ مقدار جو کھلی میں پینے کے لیے ڈالتے ہیں۔ کالا۔ (۳) کچا اناج جو بھون کر یا اسی طرح کھاتے ہیں۔ (۴) ایک قسم کی مچھلی۔ (۵) (پ) کوٹلا۔ (۶) کشتیری پنڈتوں کی ایک گوت۔ اچھے خاندان کا۔

گول۔ (Coal) [انگ۔ ۱۔ ۱] مذ۔ (۱) کوئلہ۔ (۲) پتھر کا کوئلہ۔

گول تار۔ (Coaltar) [تار۔ ۱۔ ۱] صفت) تار۔

گول ٹیشن۔ (Coal Station) [انگ۔ ۱۔ ۱] مذ۔ وہ مقام جہاں ریل کا آبن یا جہاز کو کوئلے سے پلے ہیں۔

گول گیس۔ (Coal Gas) (کو۔ گے) کی گیس۔

گول۔ (۱۔ ۱) مذ۔ نیلج۔ کھاڑی۔ (۲) خار۔ سولاج۔ (۳) گلی۔ راستہ۔

گول۔ (Cool) [انگ۔ ۱۔ ۱] صفت) ٹھنڈا۔ سرد۔

گوللا۔ (کو۔ لا) [۱۔ ۱] مذ۔ (۱) دروازے کا ادھر ادھر کا پہلو۔ کوئلہ۔ گوشہ۔ (۲) وہ اناج کی بولی جو کھٹنے کو دی جلتے۔ (۳) نیل۔ گود۔ (۴) رنگتار۔ تاریخی۔

گوللا۔ (ق۔ ۱۔ ۱) مذ۔ گیدڑ۔

گوللا۔ (۱۔ ۱) مذ۔ دیکھیے کوئلہ۔

گوللا۔ کوکھا۔ (کو۔ لا۔ کو۔ لھا) [انگ۔ ۱۔ ۱] مذ۔ پٹھا۔ چوڑا۔ سرین۔ آزار بند۔ بندھنے کی جگہ۔

گوللا اتر جانا۔ (اُترنا)۔ (۱۔ ۱) عمارت) کوکھے کی ہڈی کا اپنی جگہ سے ہرک جانا۔

گوللا کاشنا۔ سزا دینا۔ سخت صدر پہنچانا۔

گوللا مٹکانا۔ گوللا مار کر چلنا۔ (۱۔ ۱) عمارت) چوڑا چھاننا۔ گوللا پھڑکانا۔

گوللا نچی۔ (ق۔ ۱۔ ۱) صفت) گرہ باز۔

گوللا نیال۔ (ق۔ ۱۔ ۱) صفت) قلا بازوں۔

گوللا نئی۔ (ق۔ ۱۔ ۱) صفت) جلتی ہوئی کڑی۔

گوللا ٹرا۔ (کو۔ ل۔ ڈا) [ق۔ ۱۔ ۱] مذ۔ ٹکڑا کوٹنا۔

گوللا۔ (Cooler) (کو۔ ل۔ کز) [انگ۔ ۱۔ ۱] مذ۔ ٹھنڈا کرنے کا برتن یا مشین۔ خشک ساز۔

گولسا۔ (کو۔ ل۔ سا) [ق۔ ۱۔ ۱] مذ۔ کوٹلا۔

گولھو۔ (کو۔ لھو) [انگ۔ ۱۔ ۱] مذ۔ تیل یارس بیٹے کا آکر۔ نیل یارس نکالنے کی کل۔

گولھو سے پینٹنا۔ (۱۔ ۱) عمارت) بہت ایزادینا۔

گولھو سے کھل اُتری بھی بیلوں جوگ۔ (۱۔ ۱) مثل) آدمی بوڑھا ہو کر نہما ہو جانا ہے۔

گولھو کا بیل۔ (۱۔ ۱) صفت) تیل کا بیل۔ نہایت منتی محنت کش۔ وہ جو ہر وقت کام میں لگا رہے۔

گولھو کاٹ موکری بنانا۔ اونٹے کام کیلئے بڑا کام خراب کرنا۔ ایک بڑے کام کی چیز کو بگاڑ کر چھوٹی چیز بنانا۔

گولھو کے بیل کو گھر ہی کو س پچاس۔ گولھو کے بیل کو گھر ہی میں منزل ہے۔ (۱۔ ۱) عمارت) مصیبت زدہ کو گھر میں بھی قرار نہیں دینا۔

گولھو کے بیل کی طرح پلنا۔ (۱۔ ۱) عمارت) سخت محنت و مشقت کرنا۔ کسی کام میں دن رات مصروف رہنا۔

گولھو میں پلو ا دینا۔ (۱۔ ۱) عمارت) شینے میں کھنوا دینا۔ سخت بے رحمی کی سزا دینا۔

گولھو میں پیل ڈالنا (اپلینا)۔ (۱۔ ۱) عمارت) سخت سزا دینا۔ سخت تکلیف دینا۔

گولھی۔ کوئی۔ (کو۔ لی۔ کو۔ لیا) [یا۔ ۱۔ ۱] صفت) گود۔ دونوں ہاتھوں کا حلقہ۔ گودی۔ آغوش۔

گولی بھرنا۔ گولی میں بھر لینا۔ (۱۔ ۱) عمارت) گودی بھرنا۔ نبل میں دبانا۔ نبل گیر ہونا کھلے گانا۔

گولی۔ (کو۔ لی) [انگ۔ ۱۔ ۱] مذ۔ (۱) مٹلا۔ (۲) وہ سیاہی جو ہندی ٹانہ کے بعد ہندی لگے ہاتھوں میں نمودار ہوتی ہے۔

گولیشن۔ (Coalition) (کو۔ لی۔ شین) [انگ۔ ۱۔ ۱] صفت) اتحاد۔ اتفاق۔ (۲) مختلف جماعتوں کی متحدہ حکومت۔

کوم - (ق ۱۰۔ مذکر) پوسے کے نوک۔
 کومل - (کون۔ ن) [صفت] ۱۵) نرم۔ طام۔ نازک۔ (۲) شیریں۔ میٹھا۔
 کومل - (۳) فصیح۔ کو شعل - کو۔ ن - کو۔ ن - کومل - بھل (۱۰۔ ۱۱) [مذ] سیندھ۔ نقب۔ شکاف جو چور دیوار میں کر کے مکان کے اندر گھس آتے ہیں۔
 کومل لگانا - (۱) محاورہ) نقب لگانا۔ سیندھ لگانا۔
 کون - (ع ۱۔ مذ) ۱۱) ہونا۔ وجود میں آنا۔ (۲) عالم موجودات۔ دنیا۔ جہاں بہتی۔ (۳) حادث ہونے والی چیز۔
 کون و فساد - (ع ۱۔ مذ) موجود ہونا اور تباہ ہو جانا۔ ہو کر بڑھانا۔ بردنی و نابودنی۔
 کون و مکان - (ع ۱۰۔ مذ) دنیا۔ جہاں۔ جگ۔ سنار۔
 کون - [کمز استفہام] کلام - (۲) کیا چیز ہے۔ بے حقیقت۔
 کون بشر ہے - (۱) روزمرہ) کون شخص ہے۔ ہم نہیں جانتے۔
 کون پرانی آگ میں گرتا ہے - (۱) مثل) کوئی شخص کسی کے عرصہ نصیبت میں نہیں پڑتا۔ دوسرے کی نصیبت کوئی اپنے سر نہیں لیتا۔
 کون جانتے - (۱) روزمرہ) خدا جانے (۲) کون نہیں جانتا۔ (۳) میں نہیں جانتا۔
 کون دن تھے - (۱) روزمرہ) کیسے اچھے دن تھے۔ کیا اچھا زمانہ تھا۔ (ق)
 کون سا - (۱) حرف استفہام) ۱۱) کون - (۲) کیا - (۳) کس قدر۔ کتنا۔
 کون سا درخت ہے جسے ہوا نہیں لگتی - (۱) مثل) عیب اور تکلیف سے کوئی خالی نہیں۔
 کون سا زہر لے گیا ہے - (۱) روزمرہ) کیا برائی ہو گئی ہے۔
 کون سنتا ہے - (۱) محاورہ) کوئی نہیں سنتا۔
 کون سے مرض کی دوا ہو - کس کام کے ہو۔ محض نکلے اور بے مہر ہو۔
 کون سی بات آشکار لکھی ہے - (۱) روزمرہ) کوئی کس بات کی نہیں لکھی۔
 کون سے قرآن میں لکھا ہے - (۱) روزمرہ) کس قلم سے لکھا ہے۔
 کون سے لعل لگے ہیں - (۱) روزمرہ) کیا خاص بات ہے۔
 کون کہتا ہے - (۱) روزمرہ) کوئی نہیں کہتا۔ میں نہیں کہتا۔
 کون کہے - (۱) روزمرہ) بیان نہیں ہو سکتا۔
 کون وقت ہوا - (۱) روزمرہ) دیر ہو گئی۔ مدت ہو گئی۔
 کون وقتوں سے - (۱) روزمرہ) بڑی دیر سے۔
 کون ہوتا ہے - (۱) محاورہ) اسے کیا واسطہ ہے۔ وہ کیا تعلق رکھتا ہے۔ (۲) کیا رشتہ ہے۔
 کون ہے - (۱) کمز استفہام)

کون کوئی ہے - (۱) صفت) دلالوں کی اصطلاح) (ق ۹)
 کون - (ف ۱۰۔ مٹ) متعقد۔ گاڑ۔ سفوف۔
 کون خمر - (۱) مرد نادان۔ احمق۔ بے وقوف۔ بے تیز۔ مورکھ (۲) گندہ دماغ۔
 کونا - (کونا) [ع ۱۔ مذ] ۱۱) گوشہ۔ زاویہ (۲) طرف۔ جانب۔ پہلو۔ کولا۔
 کونا کونا جھانکنا - (۱) محاورہ) بے انتہا تلاش کرنا۔ جستجو کرنا۔
 کونا کھدرا - کونا کھترا - (۱) مذ) کونہ دوشہ۔ گوشہ دوشہ۔
 کونے میں بلیڈ رہنا - (۱) محاورہ) گوشہ نشین ہو جانا۔
 کونے میں پڑا رہنا - (۱) محاورہ) سب سے الگ رہنا۔
 کوپل - (کون۔ پن) [ع ۱۔ مٹ] شکوفہ۔ کلی۔ نئی چھوٹی طام پتی جو درخت میں سب سے پہلے نکلتی ہے۔
 کوپل پھوٹنا۔ کوپل نکلنا - (۱) محاورہ) شکوفہ نکلنا۔ نئے پتے پھوٹنا۔
 کونٹ - (۱) مٹ) اندازہ۔ تخمینہ۔ مکمل۔ تشیص۔
 کونٹا۔ کونٹنا۔ (کوقت۔ نا) کونٹہ۔ (نا) [ع ۱۔ مٹ] باز کے واسطے زور کرنا۔ حالت قبض میں زور لگا کر یا تانہ نکالنا۔
 کونج - (۱) مٹ) تازہ۔ کلنگ۔ راج ہنس۔ حواصل۔ مرغابی۔
 کونجڑی - (۱) مٹ) سبزی فروش عورت۔ کونجڑا کی تانیٹ۔
 کونجڑی اپنے ہیر کھٹے نہیں بتاتی - (۱) مثل) کوئی اپنی چیز کو بڑا نہیں کہتا۔
 کونج - (۱) مٹ) ایک زہر بلا درخت اور اس کی پھل کا نام۔
 کونج - (۱) مٹ) دیکھیے کونج۔
 کونچا - (کون۔ چا) [ع ۱۔ مذ] بھر بھرنے کا کڑھچا جس سے بالو وغیرہ نکالتے ہیں۔
 کونچا - (کون۔ چا) [ع ۱۔ مذ] گھاس کا بودا۔
 کونچی - (کون۔ چا) [ع ۱۔ مٹ] دیکھیے کونچی۔
 کونڈ - (۱) مٹ) بگی کی چمک۔
 کونڈا - (۱) مذ) دیکھیے کونڈ۔
 کونڈنا - (کونڈ۔ نا) [ع ۱۔ مٹ] بگی چمکنا۔
 کونڈ - (۱) مٹ) ۱۱) ناند - (۲) مقبتہ
 کونڈا - (کون۔ ڈا) [ع ۱۔ مذ] ۱۱) آغا گوندھے کا مٹی کا ظرف۔ ناند۔ پرات - (۲) نذر نیاز کی شیرینی۔
 کونڈا بھرنا - (۱) محاورہ) نذر پوری ہونے پر امام جعفرؑ کی نیاز دلوانا۔
 کونڈا کرنا - (۱) کسی کے نام کی نیاز دلوانا۔ (۲) دو تین آدمیوں کا بل کر کسی کے ساتھ بڑا کام کرنا۔
 کونڈا - (ق) قید بند۔
 کونڈی - (کون۔ ڈی) [ع ۱۔ مٹ] اچھوٹا کونڈا جو اکثر مٹی یا پتھر کا بنا ہوا ہوتا ہے۔ ڈوڑی۔
 کونڈا - (کون۔ نا) [ع ۱۔ مٹ] ۱۱) بے اداس۔ بدحواس - (۲) کاییں کاییں سے گھبرا یا ہوا۔

کوئٹل - (Counsel) (دکون - سئل) [انگ - ۱۰ - مٹ] [۱۲] جماعت۔
 مجلس - سبھا - (۱۲) مجلس شوری - مؤخر - دیوان - (۳۰) ارکان مجلس۔
 کوئٹل کرنا - (۱۰) محاورہ) صلاح مشورہ کرنا - منصوبہ کا طعنا۔
 کوئٹلسٹر - (Councillor) (دکونٹن - رنر) [انگ - ۱۰ - مٹ] مجلس شوری
 کارکن - کونسل کارکن - مشیر - صلاح کار۔
 کوئٹلسٹی - (دکونٹن - لی) [انگ - ۱۰ - مٹ] صلاح کار - کونسل کامبر - مشیر۔
 ویل - پیروکار۔
 کوئل کوئل - (دھ - ۱۰ - مٹ) کتے کے پتوں کی آواز۔
 کوئی - (کوئی - فی) [انگ - ۱۰ - مٹ] وہ شخص جسے ملت متاع ہو - بویسیا - گاندو۔
 کوئین - (کوئین - بیمن) [ع - ۱۰ - مٹ] (دکون کاتینہ) دونوں جہاں - بہرہ و مال۔
 دین و دنیا - ہر دوسرا۔
 کوئینین - (Quinine) (کوئن - این) [انگ - ۱۰ - مٹ] ایک مشہور
 انگریزی دوا جو بیمار اور بالخصوص طبر یا سبب میں استعمال کی جاتی ہے۔
 کوہ - (دھ - ۱۰ - مٹ) پہاڑ - وہ سنگلاخ قطع جو سطح زمین سے بلند ہو۔
 کوہ آتش فشاں - (دھ - ۱۰ - مٹ) وہ پہاڑ جس میں سے گندھک کا مادہ
 ہونے کے باعث آگ کے شعلے اُٹھتے رہتے ہیں - جو آلا سکی۔
 کوہ آدم - (دھ - ۱۰ - مٹ) نکاک کے سلسلہ کوہ کی وہ بلند چوٹی جس کے متعلق خیال
 کیا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام بہشت سے یہیں اترے تھے۔
 کوہ الہرز - (دھ - ۱۰ - مٹ) ایران کے شمال میں ایک مشہور بلند پہاڑ کا نام۔
 کوہ بے ستون - (دھ - ۱۰ - مٹ) ایران کا ایک پہاڑ جسے فراد نے کھود کر
 اپنی معشوقہ شیریں کے لیے جوئے شیر نامی نذر نکالی تھی۔
 کوہ پیکر - (دھ - ۱۰ - مٹ) پہاڑ جیسے جو والا - گمانڈیل - قوی جتن۔
 کوہ ٹوٹنا - (۱۰) محاورہ) بہت بڑی تمکینت پڑنا۔
 کوہ جگر - (دھ - ۱۰ - مٹ) باحوصلہ آدمی - شجاع - دلیر - بہادر۔
 کوہ چوٹی - (دھ - ۱۰ - مٹ) وہ پہاڑ جس پر حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی
 طوفان کے ختم ہو جانے پر ٹھہری تھی۔
 کوہ رحمت - (دھ - ۱۰ - مٹ) کوہ سغدر کے پاس ایک پہاڑی۔
 کوہ رواں - (دھ - ۱۰ - مٹ) چلنے والا پہاڑ (۲۰) مجازاً گھوڑا - ہاتھی۔
 کوہسار - (دھ - ۱۰ - مٹ) پہاڑی جگہ - (۲۰) سلسلہ کوہ - جمع - کوہسار۔
 کوہستان - (دھ - ۱۰ - مٹ) پہاڑی ملک - (۲۰) پہاڑوں کا سلسلہ - پہاڑ۔
 کوہستانی - (دھ - ۱۰ - مٹ) پہاڑی - کوہی - پہاڑ کا - (۲۰) پہاڑ
 کا رہنے والا۔
 کوہ سینا - کوہ طور - (دھ - ۱۰ - مٹ) شام کا وہ مشہور پہاڑ جس پر خدا
 تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی تجلی دکھائی تھی اور وہی
 شریعی احکام نازل فرمائے تھے۔
 کوہ صفا - (دھ - ۱۰ - مٹ) صفا اور مردہ - مگر منظر کے نزدیک دو مقدس
 پہاڑیاں ہیں - جن کے بیچ میں حاجیوں کو سات بار دوڑنے
 کا حکم ہے۔
 کوہ قاف - (دھ - ۱۰ - مٹ) ایک پہاڑ جو ایشیائے کوچک کے شمال میں

واقع ہے - (۲۰) [انگ] وہ جگہ جہاں آدمی کا گزرنہ ہو سکے - نہایت دشوار
 گزار اور نسان پہاڑ۔
 کوہ کون - (دھ - ۱۰ - مٹ) پہاڑ کھودنے والا - شیریں کے عاشق فریاد کا
 لقب جس نے کوہ بے ستون کھود کر ایک نہر شیریں کے محل تک
 پہنچائی تھی۔
 کوہ کندن ، کاہ بر آوزون - (دھ - ۱۰ - مٹ) بے تیج کام کرنا - ایسا کام کرنا
 جس میں مشقت زیادہ اور فائدہ کچھ نہ ہو۔
 کوہ کنی - (دھ - ۱۰ - مٹ) پہاڑ کھودنا۔
 کوہ کو کاہ سمجھنا - (۱۰) محاورہ) دشوار کام کو آسان سمجھنا۔
 کوہ نور - بلند و ستان کا ایک نہایت مشہور و معروف پہاڑ جو آجکل
 انگلستان میں حکومت برطانیہ کے پاس ہے۔
 کوہاڑا - (دھ - ۱۰ - مٹ) مشکل - (۲۰) تردد - مکہ - اندیشہ - غم۔
 کوہان - (دھ - ۱۰ - مٹ) اونٹ کی پیٹھ کی ہڈی - (۲۰) سانڈ
 یا بیل کا اونچا کندھا۔
 کوہی - (دھ - ۱۰ - مٹ) [دھ - ۱۰ - مٹ] پہاڑی - پہاڑ کا باشندہ۔
 کوہی - (دھ - ۱۰ - مٹ) [دھ - ۱۰ - مٹ] بھری - ایک قسم کا خشک جو اکثر کبوتروں کو
 پکڑ دیتا ہے۔
 کوہلا - (کوہ - لا) [دھ - ۱۰ - مٹ] ملی ہوئی لکڑی کا بچھا یا جو ٹکڑا یا کان
 سے نکالا ہوا سیاہ مادہ - دیکھئے کولہ۔
 کوٹوں پر ٹھہر جونا - (۱۰) محاورہ) بڑے بڑے اخراجات پر توجہ نہ کرنا اور
 اسے خرچ پر کفایت دکھانا۔
 کوٹوں کی دلالی میں (منہ میں جھبی کا لاپٹے بھی کالے) ہاتھ کالے -
 (دھ - ۱۰ - مٹ) جس کام میں ناحق نام بدنام ہو اس کی نسبت بولتے ہیں - بڑے
 کاموں میں پڑنے کا انجام بدنامی ہے۔
 کوٹوں کے ٹول - (دھ - ۱۰ - مٹ) بہت سستا۔
 کوٹے کی کان - (دھ - ۱۰ - مٹ) وہ کان جس میں سے پتھر کا کوٹہ نکلتا ہے۔
 کوئی - (دھ - ۱۰ - مٹ) [دھ - ۱۰ - مٹ] کلمہ نیکیرا [دھ - ۱۰ - مٹ] کچھ کسی - (۲۰) نامعلوم شخص - (۳۰) تقریباً۔
 گک جگک - تخمیناً - (۲۰) ایک آدھ - (۲۰) آکا ڈگا - (دھ - ۱۰ - مٹ) ممکن ہے۔
 (۲۰) ذرا - ایک۔
 کوئی اب بولے کوئی جب بولے میری مکھی شیا شپ بولے۔
 (دھ - ۱۰ - مٹ) نہایت بے شرم اور بے حیاء کی نسبت بولتے ہیں جو بے عروت
 ہو کر بھی بکواس کرتا چلا جائے۔
 کوئی آنکھوں کا اندھا کوئی عقل کا اندھا - (دھ - ۱۰ - مٹ) کوئی جہالت کے
 سبب سے بے وقوف اور کوئی پڑھا لکھا ہو کر جاہل۔
 کوئی آنا نہیں - (۱۰) محاورہ) کسی کو اتنی توفیق نہیں۔
 کوئی بات اٹھانا نہ رکھنا - (۱۰) محاورہ) کچھ کسر نہ رکھنا - سب کچھ لینا - سب
 تمیریں کر لینا۔
 کوئی پل کا ہمان - (دھ - ۱۰ - مٹ) چند گھڑی کا ہمان - مرنے کے قریب۔
 کوئی پوچھتا نہیں - (۱۰) متقولہ) کوئی پرسیاں حال نہیں - کوئی توجہ نہیں دے گا۔

کوئی تقدیر کے لکھے کو بٹا نہیں سکتا۔ (۱۔ مثل) کسی تمیر سے تقدیر نہیں بدل سکتی۔
 کوئی تن دکھی کوئی سن دکھی، دکھی سارا سنسار۔ (۱۔ مثل) کسی کو کوئی دکھ کسی کو کوئی۔ دنیا میں کوئی کسی نہیں۔
 کوئی تو پوچھے گا۔ (۱۔ محاورہ) کوئی تو باز پرس کرے گا۔ کوئی تو سنے گا کسی کو تو ضرور رحم آئے گا۔
 کوئی تو لوں بھاری، کوئی مولوں بھاری۔ کوئی تو لوں کم کوئی مولوں کم۔ (۱۔ مثل) کوئی کسی سبب سے مراد اور عزت والا ہے کوئی کسی سبب سے۔ ہر شخص اپنی حیثیت کے مطابق عزت رکھتا ہے۔
 کوئی جیسے کہ مرے ان کو اپنے کام سے کام۔ (۱۔ مثل) خود غرض آدمی کی نسبت بولتے ہیں جس کو کسی کے رنج و راحت کی پرواہ نہ ہو۔
 کوئی چیر رہے۔ (۱۔ محاورہ) بے کار چیز ہے۔
 کوئی حال مست کوئی مال مست۔ (۱۔ مثل) کوئی اپنی غریبی پر قناعت کے ہوتے ہے کوئی اپنی دولت کے نشے میں پھر۔ ہر ایک اپنے حال پر خوش ہے۔
 کوئی دم کا دامہ ہے۔ (۱۔ مثل) زندگی بہت تھوڑی ہے۔
 کوئی دم کا جہان۔ (۱۔ محاورہ) قریب مرگ۔ جلد رخصت ہونے والا۔ جاہنار۔
 کوئی دن۔ (۱۔ تابع فعل) چند روز۔ تھوڑے دنوں کے لیے۔
 کوئی دن جاتا ہے۔ (۱۔ محاورہ) عنقریب ہے۔ تھوڑی مدت میں۔
 کوئی دن کی ہوا کھانا۔ (۱۔ محاورہ) تھوڑے دن کی زندگی اور ہونا۔
 کوئی دن یاد کرو گے۔ (۱۔ محاورہ) ہماری قدر کچھ دن بعد ہوگی۔
 کوئی کسی کا درد بانٹ نہیں لیتا۔ (۱۔ محاورہ) رنج و غم خود ہی برداشت کرنے پڑتے ہیں۔
 کوئی کسی کی آگ میں نہیں گرتا۔ (۱۔ مثل) کسی کی معیبت اور ہلاک کوئی شخص اپنے سر نہیں لیتا۔
 کوئی کسی کی قبر میں نہیں جاتا۔ (۱۔ مثل) کوئی کسی کے عوض نہیں مڑتا۔ ہر شخص اپنی ہی جواب دہی کرے گا۔
 کوئی گل سیدھی نہیں۔ (۱۔ محاورہ) کوئی پہلو ٹھیک نہیں۔ ہر بات میں بیچ ہے۔
 کوئی گل نہ بیٹھنا۔ (۱۔ محاورہ) کسی طرح چین نہیں ہے۔
 کوئی گن نہ سمجھے۔ (۱۔ روزمرہ) (مجبوری) یعنی آپ بڑے بد ذات ہیں۔
 کوئی کوئی۔ (۱۔ صفت) ایک آدم۔ اکا دکا۔ شاذ و نادر۔
 کوئی کہاں سے لائے۔ (۱۔ تابع فعل) ناپید ہونے اور مجبوری ظاہر کرنے کے موقع پر کہتے ہیں۔
 کوئی کیا جائے۔ (۱۔ روزمرہ) کسی کو نہیں معلوم۔ مجھ کو نہیں معلوم۔
 کوئی کیا کرے۔ (۱۔ روزمرہ) مجبوری ہے۔ چارہ نہیں (۲۰) بیکار ہے۔
 کوئی مرے کوئی ظہار گائے۔ (۱۔ مثل) جب کسی کی معیبت پر کوئی خوشی منائے اس موقع پر بولتے ہیں۔

کوئی نہ کوئی۔ (۱۔ متعلق فعل) ایک نہ ایک۔ یہ نہیں وہ۔
 کوئی کھڑی کا جہان ہے۔ (۱۔ مثل) مرنے کے قریب۔ قریب مرگ ہے۔
 کوئی نہیں پوچھتا کہ منہ میں کسے داشت ہیں۔ (۱۔ مثل) (۱۵) نہایت امن پسین کا زمانہ۔ ہر شخص بے خوف و آلا دہ ہے۔ (۲۰) کس پر کسی کا اظہار۔
 کوئی ہو۔ (۱۔ روزمرہ) کسے باشد۔ جو چاہے۔ کسی کی خصوصیت نہیں۔
 کوئی ہے۔ (۱۔ صحت نداء) (۱۵) ملازم کو بلائے کی آواز۔ (۲۰) کیا کوئی شخص موجود ہے؟
 کوئے۔ (کو۔ اے) (ف) (۱۰۔ مذ) دیکھیے کو۔
 کوئی۔ (ک۔ وی) (س) (۱۰۔ مذ) (اصل کو) (۱۵) شاعر (۲۰) عالم و فاضل شخص۔
 کوئی راج۔ (س) (۱۔ مذ) ملکہ لشوار۔
 کوئے اڑھانا۔ (۱۔ شگون) جب کوئی پر دیس سے آئے والا اور کو انڈیا پر آکر بولے تو عمر میں یہ فقرہ کہہ کر شگون لیتی ہیں کہ اگر وہ آئے والا ہو گا تو کو آڑھانا ہے۔
 کوئے کو سا کریں کھیت پکا کریں۔ (۱۔ مثل) نامحی بددعا کا اثر نہیں ہوتا۔ (۲۰) دشمن کے برا چاہنے سے بُرا نہیں ہوتا۔
 کوئے کو سننے سے کہیں ڈھور مرتے ہیں۔ (۱۔ مثل) کسی کی بددعا سے کسی کا نقصان نہیں ہوتا۔
 کوئے کھلتے ہیں۔ (۱۔ مثل) عوام کا اعتقاد ہے کہ کوئے کھانے سے انسان کی عمر لمبی ہوتی ہے اور بال کالے ہو جاتے ہیں۔ (۲۰) بہت بولنے والے کی نسبت کہتے ہیں۔
 کوئے کی دم (گانڈ) میں انار گلی۔ (۱۔ مثل) کالے رنگ کا آدمی رنج لباس پہنے تو کہتے ہیں۔
 کویا۔ (کو۔ یا) (ھ) (۱۰۔ مذ) (۱۵) آنکھ کا کوہ۔ گوشہ چشم۔ (۲۰) شریف یا کھل کا دانہ یا گودا۔ (۲۰) ریشم کے کیڑے کا نول۔
 کویل۔ (کو۔ یل) (ھ) (۱۰۔ صفت) ایک خوش آواز کالے رنگ کے پرند کا نام جو آموں کے موسم میں یہاں آتا ہے۔
 کویل کو گنا۔ (صفت) کویل کا بولنا۔
 کویلو۔ کویل۔ (کو۔ ل) (ف) (۱۰۔ صفت) کویل۔

ک۔ ۵

کہ۔ (ف) (۱۵) بیان کے لیے نیز "جو" کی بجائے جو بیان کے موقع پر آتا ہے۔ (۲۰) علت۔ سبب۔ (۳۰) ناگاہ۔ دفعہ (۴۰) بمعنی یا۔
 کہ۔ (ف) (صفت) چھوٹا۔ کم تر۔ ادنیٰ۔
 کہ تر۔ (کہتر) (ف) (صفت) بعض [زیادہ چھوٹا۔ ادنیٰ۔ بہتر کیفیت۔
 کہترین۔ (کہترین) (ف) (صفت) (کفیل) [سبب سے چھوٹا۔ سبب سے حقیر۔
 کہ و مہ۔ (ف) (صفت) چھوٹا بڑا۔ خورد و کلاں۔ خاص و عام۔ بہتر۔
 کہ۔ (ف) (۱۰۔ مذ) اکاہ کا صفت۔

کہر با - (د - ۱۰) مذ - ایک قوم کا زرد گوئند - اسے کپڑے یا چڑے سے رگڑ کر گھاس کے نیکے کھائے کریں تو اسے اٹھایا جاتا ہے۔
 کہر بائی - (د - صفت) کڑیا سے منسوب - (۲۲) برقی - منفاطیس۔
 کہر با بیتیٹ - (د - ۱۰) مٹ - کشش۔
 کبکشاں - (د - ۱۰) مذ - بہت سے جھوٹے چھوٹے ستاروں کی دھار جو اندھیری رات میں سرک کی مانند آسمان پر دوڑتے دکھائی جاتی ہیں۔
 آتی ہے -
 کبکگل - (د - ۱۰) مٹ - پرتیز کرنے کی مجلس میں ہوتی مٹی - دیکھیے کاہ گل۔
 کبہا - (د - ۱۰) مذ - کبنا کا ماضی - کبنا - بچن - سخن - قول - مقولہ - (۲۲) کبہا ہوا کلمہ۔
 کبہاشنا - (د - ۱۰) مذ - (۱) جرم - تفسیر - (۲) کلمہ - جھکوہ (۳) منہ سے نکھلایا کانوں سے سُنا ہوا۔
 کبہاشنا بخشوا - (د - ۱۰) محاورہ - مرتے وقت خطا میں معاف کرانا۔
 کبہاشنی - (د - ۱۰) مٹ - لگائی بھائی - غیبت - ادھر کی ادھر کہنی۔
 کبہا کرنا - کبہاشنا - (د - ۱۰) محاورہ - کبہا کرنا - کہنے کے مطابق کرنا - کہنے پر عمل کرنا۔
 کبہا اٹھنا - (د - ۱۰) مذ - نا - (۱) معنی - بے سمجھے ہوئے کہنے لگنا۔
 کبہا کے پھر جانا - (د - ۱۰) محاورہ - کبہا کرنا۔
 کبہا کے گنہگار ہونا - (د - ۱۰) محاورہ - بے جا کبہا سے تہمت بات کہنا۔
 کبہا مگرنی - (د - ۱۰) مٹ - ایک قسم کی پہیلی جس میں اس کا جواب بھی بڑھتا ہے۔
 کبہاڑ - (د - ۱۰) مذ - (۱) پانی لانے والا - مہرہ (۲) ڈھول یا پاگی اٹھا کر چلنے والا - حمال (۳) برتن مانجھنے والا۔
 کبہاوی - (د - ۱۰) مذ - (۱) مٹ - کبہاروں کی مزدوری - ڈول کا کرایہ - (۲) کبہا کی تانیٹ - کبہا کی بیوی۔
 کبہاں - (د - ۱۰) مذ - (۱) ہ - (۲) استفہام [د - ۱۰] کس جگہ - کدھر - (۳) نہیں - کب - (۴) دوری - فرق عظیم۔
 کبہاں تک - (د - ۱۰) مذ - (۱) اتنی دور تک - (۲) اتنی دیر تک - کس عرصے تک۔
 کبہاں جاتا ہے - (د - ۱۰) محاورہ - کس جگہ (کس کے پاس) جاتا ہے۔ (۲) کہاں بچ کے جاتا ہے۔ (۳) ضرور سزا پائے گا۔
 کبہاں جاؤں - (د - ۱۰) محاورہ - (۱) یوسی کے عالم میں، کیا علاج کروں کیا تدبیر کروں۔
 کبہاں راجہ جھوٹ کبہاں گنگو تیلی کبہاں رام رام کبہاں ٹہیں ٹہیں - (د - ۱۰) مٹ - اونی کو اونی سے کیا نسبت؟ کبہاں یہ کہاں وہ؟
 کبہاں سر بھوڑوں - (د - ۱۰) محاورہ - کبہاں جاؤں - کیا کروں - کدھر جاؤں۔
 کوئی تدبیریں نہیں آتی - عالم مجھوری اور نا چاری ہے۔
 کبہاں سے ٹپک پڑے - (د - ۱۰) محاورہ - کدھر سے آگے - اچانک کہاں سے آگے۔

کبہاں سے کہاں - (د - ۱۰) مذ - (۱) کدھر سے کدھر - (۲) بہت آگے - بے ٹھکانے - کانے کوسوں۔
 کبہاں سے آیا ہے - (د - ۱۰) مذ - (۱) مقولہ - کیا چیز ہے کوئی وقعت نہیں۔
 کبہاں کا - (د - ۱۰) صفت - (۱) کس جگہ کا؟ کس شہر کا - (۲) کس طرف کا - (۳) کیسا - کس مطلب کا - (۴) کس کا - کدھر کا - (۵) کون سا - (۶) کب کا - کس زمانے کا۔
 کبہاں کا آنا کہاں کا جانا - (د - ۱۰) محاورہ - کیا آنا - کیا جانا - کیسی ملاقات - کیا واسطہ - قطعی بنے قطعی۔
 کبہاں کی بلا بھیجے گی - (د - ۱۰) محاورہ - کسی بات سے تنگ یا ناراض ہو کر یہ کلمہ زبان پر لانے میں کس کو آفت میں پڑے۔
 کبہاں کے میس مار خاں ہیں - (د - ۱۰) محاورہ - کہاں کے اتنے بہادر ہیں۔
 کبہاں کے ہیں - (د - ۱۰) محاورہ - کون سے ملک کے رہنے والے ہیں - ایسے کون ہیں۔
 کبہاں لا کر پھینسا یا - (د - ۱۰) محاورہ - کس مذاب میں ڈال دیا - کس مصیبت میں مبتلا کر دیا۔
 کبہاں مہر رہا - (د - ۱۰) محاورہ - کہاں دیر لگا دی - کیوں دیر لگا دی۔
 کبہاں یہ کہاں وہ - (د - ۱۰) مٹ - ان کا مقابلہ کیا۔
 کبہانا - (د - ۱۰) مذ - (۱) مشہور ہونا - کبہانا - نام رکھا جانا - (۲) پیغام دینا۔
 کبہا نشت - (د - ۱۰) مذ - (۱) نشت - (۲) ع - (۳) مٹ - (۴) غیب کی بات بتانا - مثال گولہ کبہانی - (د - ۱۰) مذ - (۱) نشت - (۲) حکا بہت - تفتہ - داستان - افسانہ - (۳) ذکر - بیان - (۴) سرگذشت - گزری ہوئی بات۔
 کبہانی جوڑنا - (د - ۱۰) محاورہ - افسانہ گھڑنا - تفتہ بنانا۔
 کبہاوت - (د - ۱۰) مذ - (۱) مٹ - (۲) قول - بچن - بشل - ضرب النشل۔
 کبہا بیٹھنا - (د - ۱۰) مذ - (۱) بیٹھنا - (۲) بیٹھنا - (۳) بیٹھنا - (۴) بیٹھنا - (۵) بیٹھنا - (۶) بیٹھنا۔
 کہتے تھے - (د - ۱۰) مذ - (۱) تالیف - (۲) کہتے ہوئے - (۳) کہتے ہوئے۔
 کہتے تھے نہ بنی - (د - ۱۰) محاورہ - کچھ جواب نہ بن پڑا۔
 کہتے کہتے زبان دبا جانا - (د - ۱۰) محاورہ - پائیں کرتے کرتے کسی بات کو مٹال جانا۔
 کہتے کے ساتھ ہی - (د - ۱۰) مذ - (۱) تالیف - (۲) فوراً - (۳) مٹ - ہی - جھٹ پٹ - نرٹ۔
 کہتے کی زبان نہیں کھڑی جاتی - (د - ۱۰) مٹ - (۱) کہتے کو کوئی روک نہیں سکتا۔
 کہتے ہوتے - (د - ۱۰) مذ - (۱) تالیف - (۲) منہ سے نکالتے ہوئے - (۳) زبان پر لگتے ہوئے۔
 کہتے ہیں - (د - ۱۰) مذ - (۱) روایت - (۲) روایت ہے۔
 کہہ - (د - ۱۰) مذ - (۱) کہنا مصدر سے صیغہ امر - (۲) منہ سے بول - بات کہ - بیان کر۔
 کہہ اٹھنا - (د - ۱۰) محاورہ - بے سوچے سمجھے کچھ کہہ دینا۔
 کہہ دینا - (د - ۱۰) محاورہ - (۱) ظاہر کر دینا - (۲) عید کھول دینا - (۳) بتا دینا۔
 کہہ دینا - (د - ۱۰) محاورہ - (۱) عین کر دینا - (۲) بات سنا دینا۔
 کہہ دیں گے - (د - ۱۰) محاورہ - کسی امر کے ٹالنے اور انکار کرنے کے موقع پر بولتے ہیں۔
 کہہ - (د - ۱۰) مٹ - وہ بخارا ت جو سردی کے موسم میں صبح اور شام کو دھند

سی پیدا کر دیتے ہیں۔
 کہرا - (د۔ ۱۔ مذ) گھوڑے کا ایک خاص رنگ۔ کیت رنگ۔
 کہرا - (د۔ ۱۔ مذ) گھوڑے کا ایک خاص رنگ۔ کیت رنگ۔
 کہرام - (د۔ ۱۔ مذ) گھوڑے کا ایک خاص رنگ۔ کیت رنگ۔
 کہرا - (د۔ ۱۔ مذ) گھوڑے کا ایک خاص رنگ۔ کیت رنگ۔
 کہرا - (د۔ ۱۔ مذ) گھوڑے کا ایک خاص رنگ۔ کیت رنگ۔

کہفت - (د۔ ۱۔ مذ) غار۔ گڑھا۔ وہ کوہہ جس میں اصحاب کہف جا کر سوئے تھے۔
 کہل - (د۔ ۱۔ مذ) ادھیڑ۔ میانہ سال۔ نہ بڑھا نہ جوان۔
 کہلا بھیجنا - (د۔ ۱۔ محاورہ) کہہ۔ لا۔ بھیج۔ نا [د۔ ۱۔ محاورہ] پیغام بھیجنا۔ بلا بھیجنا۔
 کہلانا - (د۔ ۱۔ محاورہ) دوسرے شخص کی معرفت پیغام دینا۔ آواز لینا۔ (د۔ ۱۔ محاورہ) دوسری دفعہ پھووانا۔ (د۔ ۱۔ محاورہ) نامراد ہونا۔

کہلوانا - (د۔ ۱۔ محاورہ) کہہ۔ لا۔ بھیج۔ نا [د۔ ۱۔ محاورہ] پیغام بھیجنا۔ بلا بھیجنا۔
 کہن - (د۔ ۱۔ محاورہ) کہہ۔ لا۔ بھیج۔ نا [د۔ ۱۔ محاورہ] پیغام بھیجنا۔ بلا بھیجنا۔
 کہن - (د۔ ۱۔ محاورہ) کہہ۔ لا۔ بھیج۔ نا [د۔ ۱۔ محاورہ] پیغام بھیجنا۔ بلا بھیجنا۔
 کہن - (د۔ ۱۔ محاورہ) کہہ۔ لا۔ بھیج۔ نا [د۔ ۱۔ محاورہ] پیغام بھیجنا۔ بلا بھیجنا۔
 کہن - (د۔ ۱۔ محاورہ) کہہ۔ لا۔ بھیج۔ نا [د۔ ۱۔ محاورہ] پیغام بھیجنا۔ بلا بھیجنا۔

کہنا - (د۔ ۱۔ محاورہ) کہہ۔ لا۔ بھیج۔ نا [د۔ ۱۔ محاورہ] پیغام بھیجنا۔ بلا بھیجنا۔
 کہنا - (د۔ ۱۔ محاورہ) کہہ۔ لا۔ بھیج۔ نا [د۔ ۱۔ محاورہ] پیغام بھیجنا۔ بلا بھیجنا۔
 کہنا - (د۔ ۱۔ محاورہ) کہہ۔ لا۔ بھیج۔ نا [د۔ ۱۔ محاورہ] پیغام بھیجنا۔ بلا بھیجنا۔
 کہنا - (د۔ ۱۔ محاورہ) کہہ۔ لا۔ بھیج۔ نا [د۔ ۱۔ محاورہ] پیغام بھیجنا۔ بلا بھیجنا۔
 کہنا - (د۔ ۱۔ محاورہ) کہہ۔ لا۔ بھیج۔ نا [د۔ ۱۔ محاورہ] پیغام بھیجنا۔ بلا بھیجنا۔

زیادہ جہٹ کرتا ہے۔
 کہنے میں آجانا - (د۔ ۱۔ محاورہ) لگائی جھجائی پر عمل کرنا۔
 کہنے کو - (د۔ ۱۔ محاورہ) نام کو۔ برائے نام (د۔ ۱۔ محاورہ) عیب لگانے یا نکالنے کو۔
 کہنے کو بات رہ گئی - (د۔ ۱۔ محاورہ) وقت نکل گیا۔ شکوہ شکایت اور گلہ بانی رہ گیا۔

کہنے کو مٹنے میں زبان رکھتے ہیں - (د۔ ۱۔ محاورہ) سوال کا جواب دے سکتے ہیں۔ جیسا کہو گے ویسا سونگے۔ (د۔ ۱۔ محاورہ) برائے نام زبان ہے گویا بی کے قابل نہیں۔
 کہنے کی بات نہیں - (د۔ ۱۔ محاورہ) کہنے کے قابل نہیں۔ کچھ کہا نہیں جاسکتا۔ مشکل ہے۔
 کہنے کی باتیں ہیں - (د۔ ۱۔ محاورہ) خالی باتیں ہی باتیں ہیں۔ صرف زبانی جمع خرچ ہے۔ عمل میں لانا مشکل ہے۔

کہنے میں - (د۔ ۱۔ محاورہ) نام کو۔ برائے نام (د۔ ۱۔ محاورہ) عیب لگانے یا نکالنے کو۔
 کہنے میں آجانا - (د۔ ۱۔ محاورہ) لگائی جھجائی پر عمل کرنا۔
 کہنے کو - (د۔ ۱۔ محاورہ) نام کو۔ برائے نام (د۔ ۱۔ محاورہ) عیب لگانے یا نکالنے کو۔
 کہنے کو بات رہ گئی - (د۔ ۱۔ محاورہ) وقت نکل گیا۔ شکوہ شکایت اور گلہ بانی رہ گیا۔

کہنے کو مٹنے میں زبان رکھتے ہیں - (د۔ ۱۔ محاورہ) سوال کا جواب دے سکتے ہیں۔ جیسا کہو گے ویسا سونگے۔ (د۔ ۱۔ محاورہ) برائے نام زبان ہے گویا بی کے قابل نہیں۔
 کہنے کی بات نہیں - (د۔ ۱۔ محاورہ) کہنے کے قابل نہیں۔ کچھ کہا نہیں جاسکتا۔ مشکل ہے۔
 کہنے کی باتیں ہیں - (د۔ ۱۔ محاورہ) خالی باتیں ہی باتیں ہیں۔ صرف زبانی جمع خرچ ہے۔ عمل میں لانا مشکل ہے۔
 کہنے میں - (د۔ ۱۔ محاورہ) نام کو۔ برائے نام (د۔ ۱۔ محاورہ) عیب لگانے یا نکالنے کو۔
 کہنے میں آجانا - (د۔ ۱۔ محاورہ) لگائی جھجائی پر عمل کرنا۔

کہنے کو مٹنے میں زبان رکھتے ہیں - (د۔ ۱۔ محاورہ) سوال کا جواب دے سکتے ہیں۔ جیسا کہو گے ویسا سونگے۔ (د۔ ۱۔ محاورہ) برائے نام زبان ہے گویا بی کے قابل نہیں۔
 کہنے کی بات نہیں - (د۔ ۱۔ محاورہ) کہنے کے قابل نہیں۔ کچھ کہا نہیں جاسکتا۔ مشکل ہے۔
 کہنے کی باتیں ہیں - (د۔ ۱۔ محاورہ) خالی باتیں ہی باتیں ہیں۔ صرف زبانی جمع خرچ ہے۔ عمل میں لانا مشکل ہے۔

کہنے میں - (د۔ ۱۔ محاورہ) نام کو۔ برائے نام (د۔ ۱۔ محاورہ) عیب لگانے یا نکالنے کو۔
 کہنے میں آجانا - (د۔ ۱۔ محاورہ) لگائی جھجائی پر عمل کرنا۔
 کہنے کو - (د۔ ۱۔ محاورہ) نام کو۔ برائے نام (د۔ ۱۔ محاورہ) عیب لگانے یا نکالنے کو۔
 کہنے کو بات رہ گئی - (د۔ ۱۔ محاورہ) وقت نکل گیا۔ شکوہ شکایت اور گلہ بانی رہ گیا۔

کہنے کو مٹنے میں زبان رکھتے ہیں - (د۔ ۱۔ محاورہ) سوال کا جواب دے سکتے ہیں۔ جیسا کہو گے ویسا سونگے۔ (د۔ ۱۔ محاورہ) برائے نام زبان ہے گویا بی کے قابل نہیں۔
 کہنے کی بات نہیں - (د۔ ۱۔ محاورہ) کہنے کے قابل نہیں۔ کچھ کہا نہیں جاسکتا۔ مشکل ہے۔
 کہنے کی باتیں ہیں - (د۔ ۱۔ محاورہ) خالی باتیں ہی باتیں ہیں۔ صرف زبانی جمع خرچ ہے۔ عمل میں لانا مشکل ہے۔
 کہنے میں - (د۔ ۱۔ محاورہ) نام کو۔ برائے نام (د۔ ۱۔ محاورہ) عیب لگانے یا نکالنے کو۔
 کہنے میں آجانا - (د۔ ۱۔ محاورہ) لگائی جھجائی پر عمل کرنا۔

کہنے کو مٹنے میں زبان رکھتے ہیں - (د۔ ۱۔ محاورہ) سوال کا جواب دے سکتے ہیں۔ جیسا کہو گے ویسا سونگے۔ (د۔ ۱۔ محاورہ) برائے نام زبان ہے گویا بی کے قابل نہیں۔
 کہنے کی بات نہیں - (د۔ ۱۔ محاورہ) کہنے کے قابل نہیں۔ کچھ کہا نہیں جاسکتا۔ مشکل ہے۔
 کہنے کی باتیں ہیں - (د۔ ۱۔ محاورہ) خالی باتیں ہی باتیں ہیں۔ صرف زبانی جمع خرچ ہے۔ عمل میں لانا مشکل ہے۔
 کہنے میں - (د۔ ۱۔ محاورہ) نام کو۔ برائے نام (د۔ ۱۔ محاورہ) عیب لگانے یا نکالنے کو۔
 کہنے میں آجانا - (د۔ ۱۔ محاورہ) لگائی جھجائی پر عمل کرنا۔

کہیں کچھ کر کی کچھ - (ارشل، ان کی بات کا اعتبار نہیں - کہتے کچھ اور کرتے کچھ ہیں -
 کہیں - دک - (ہیں) [تتابع فعل] کسی جگہ - جائے - جا - دوسری جگہ -
 اور جگہ - (۲۶) کسی طرف - کسی جانب - (۳۳) شاید - ایسا نہ ہو -
 کہیں اور - (ارتتابع فعل) کسی اور جگہ - دوسری جگہ -
 کہیں اوس سے پیاس بجھتی ہے - (۱) - (ارشل، تھوڑی چیز کسی طرح کافی نہیں ہوتی -
 کہیں بوڑھے طوطے بھی پڑھتے ہیں - (۱) - (ارشل، زیادہ عمر کا آدمی علم حاصل نہیں کر سکتا -
 کہیں پاؤں رکھتے ہیں کہیں پڑتا ہے - (۱) - (ارشل) نشہ یا ضعف کی یہ حالت ہے کہ قدم لڑکھڑاتے ہیں -
 کہیں تل دھرنے کو جگہ نہیں - (۱) - (ارشل، بہت جرم ہے - بالکل بگڑ نہیں -
 کہیں دانی سے پیٹ چمپتا ہے - (۱) - (ارشل، خاص لوگوں سے راز پوشیدہ نہیں رہ سکتا -
 کہیں ڈوبے بھی ترسے ہیں - (۱) - (ارشل) بگڑوں کا سنورنا و شوار ہے -
 کہیں سنا ہے - (۱) - (ارشل) تعجب کی بات ہے -
 کہیں سے - (۱) - (تتابع فعل) کسی جگہ سے کسی مقام سے -
 کہیں کا کہیں - (۱) - (تتابع فعل) اظہار بقصد و فرقی عظیم کے موقع پر بولتے ہیں کہاں کا کہاں -
 کہیں کا نہ رہنا - (۱) - (مجاورہ) کسی جگہ اور کسی موقع کے قابل نہ رہنا - (۱) - (تتابع فعل) دینا سے جانا - کسی کام کا نہ رہنا - کسی قابل نہ رہنا - محض ملتا ہوا جانا -
 کہیں کا ہورہنا - (۱) - (مجاورہ) کسی جگہ رہ پڑنا - جہاں جانا کی جگہ کا ہونا - جا کر واپس نہ جانا -
 کہیں کہیں - (۱) - (تتابع فعل) بہت کہ کسی کسی جگہ -
 کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا - (۱) - (مجاورہ) جہاں منتی نے گنبد جوڑا - (۱) - (ارشل) بے میل رشتہ جتانے کے موقع پر بولتے ہیں -
 کہیں گرجیں کہیں برسیں - (۱) - (ارشل) ایک کا غصہ دوسرے پر نکالنا -
 کہیں ناشن سے بھی گوشت چھڑا ہوا ہے - (۱) - (ارشل) اپنوں سے چھوڑنا شکل ہے - رشتہ کسی طرح نہیں چھوڑتا - اپنوں سے اپنے نہیں چھوٹ سکتے -
 کہیں نہ کہیں - (۱) - (تتابع فعل) کسی نہ کسی جگہ - ضرور - کسی نہ کسی مقام پر -
 کہیں نہیں - (۱) - (تتابع فعل) کسی جگہ نہیں - کسی موقع پر یا مقام پر نہیں - بالکل پتہ نہیں -
 کہیں ہاتھوں کی لکیر بھی مٹی ہیں - (۱) - (ارشل) کہیں تقدیر بھی خف کرتی ہے -

کھ

کھا بڑنا - (۱) - (مجاورہ) غضب کرنا - خاموش ہو جانا - برداشت کرنا - جواب

نہ دینا -
 کھا بیٹھنا - (۱) - (مجاورہ) رقم دیا لینا -
 کھا جانا - (۱) - (مجاورہ) ہڑپ کر جانا - بھل جانا - (۲۶) نہیں کرنا - (۳۳) صرف ہو جانا -
 (۲۵) اُجاڑ دینا - (۲۵) کسی کو غصے کی نظر سے دیکھنا - (۲۶) چھا ڈالنا -
 کھا کے ڈکار نہ لینا - (۱) - (مجاورہ) پرایا مال بالکل ہتیم کر جانا -
 کھا بڑ - (کھا - بڑ) [صفت] اونچا نیچا - نا ہموار -
 کھا بڑ - (۱) - (صفت) ٹھیکری -
 کھانت - (۱) - (صفت) وہ میلا یا گھورا جسے گڑھا کھو کر دوبار رکھتے ہیں اور کچھ عرصہ میں نکال کر کھیتوں میں ڈالتے ہیں - (۲۶) بوسیدہ اور گلی سڑی چیزیں کھاؤ -
 کھانا - (کھانا) [صفت] حساب کی کتاب - روزنامہ - لیکھا - مہی - دھالین دین -
 کھانا مہی - (۱) - (صفت) ہر سامی کے لیے ملندہ حساب کی کتاب -
 کھاتے پڑنا - (۱) - (مجاورہ) حساب میں درج ہونا - روزنامہ سے کچی بھی پڑھا جانا -
 کھاتا پیتا - (کھاتا - پیتا) [صفت] خوش حال - آسودہ حال -
 نمرقہ الحال -
 کھاتا ڈالنا - (۱) - (مجاورہ) کسی سے لین دین جاری کرنا -
 کھاتری - (کھات - رتی) [صفت] دریا کے کنارے کی فصل -
 کھانگ - (۱) - (صفت) بُرائی - موشنی -
 کھانگی - (کھات - گی) [صفت] کھانا - خوراک - غذا -
 کھاتی - (کھا - تی) [صفت] بڑھی - سجاؤ -
 کھاتے پیٹے لائیں مارنا - (۱) - (مجاورہ) آسودگی میں بھی قسمت کا شاکی ہونا -
 کھاٹ - (۱) - (صفت) چار پائی - پنگڑی -
 کھاٹ پر پڑ کے کھانا - بیماری پر اٹھنا - بیماری میں صرف ہونا - بیماری پر لگنا -
 کھاٹ پڑنا - (کھاٹ سے لگ جانا) (۱) - (مجاورہ) بیمار ہو کر چار پائی پر پڑنا - صاحب فرارش ہونا -
 کھاٹ سے اُتار لینا - (۱) - (مجاورہ) قریب مرگ آدمی کو چار پائی سے اُتار کر زمین پر ڈال دینا - تاکہ مرگ بھوت نہ بن جائے - (بہند و وکی لفقاد) کھاٹ سے لگ جانا - (۱) - (مجاورہ) بیمار ہو کر چار پائی پر پڑ جانا - بیماری کے باعث بہت کمزور ہو جانا -
 کھاٹ کھولا - (۱) - (مجاورہ) استریسٹر - انگریز گھنگڑ - مال اسباب - بوریا بندھنا -
 کھاٹ نکلنا - (۱) - (مجاورہ) جنازہ نکلنا - ارٹھی نکلنا - مرنا -
 کھاج - (۱) - (صفت) کھلی - خارش - دہی جماع کی خواہش -
 کھا جا - (کھا - جا) [صفت] خوراک - غذا - (۲۶) ایک قسم کی مٹھائی -
 کھاؤ - (۱) - (صفت) دیکھیے کھات - (۲۶) پیشگی جو کاشت کار کو خوراک کے لیے دی جاتی ہے - (۳۳) کوڑا کرکٹ اور بوسیدہ اور گلی سڑی چیزیں جو کھیت میں ڈالتے ہیں -

کھادر - (کھا - ڈر) [ھ - ا - مٹ] نثیب - پست زمین - وہ زمین جہاں سیلاب رہے۔
 کھادی - (کھا - دی) [ھ - ا - مٹ] دیکھے کھدر۔
 کھار - (کھا - ا - مذ) [ھ - ا - شور - کتر - شوریت - نمک - (۲) سچی - کاٹ کرنے والی چیز۔
 کھار لگنا - (۱) محاورہ) شور لگنا - کٹر لگنا۔
 کھارا - (کھا - را) [ھ - صفت] شور - نمکین - کڑوا - (۲) یورپ) کھاس - لادی - (۳) ہر کسی کی نیلیوں یا سرکنڈوں کا چٹھوٹا ٹوکرا جس پر دو لھا کو پھیروں کے وقت کپڑا ڈال کر بٹھاتے ہیں۔
 کھاروا - (کھا - وا) [ھ - ا - مذ] ایک قسم کا سرخ رنگ کا موٹا کپڑا۔
 کھاری - (کھا - ری) [ھ - صفت] کھار کی تائیت - نمکین - شور - تلخ - کڑوا۔
 کھاری پن - (۱) مذ) کھاری ہونے کا لائق - کھاری ہونے کی کیفیت۔
 کھاری لتوال - (۱) مذ) وہ کنواں جس کا پانی نمکین ، بد مزہ یا کڑوا ہو۔ (اصطلاحاً) بے فیض دولت مند - بے مروت حاکم۔
 کھاری گنوں میں ڈال دینا - (۱) محاورہ) صنایع کروینا - کھو دینا - پھینک دینا - فائدے سے ہاتھ اٹھالینا - بے فائدہ کھو دینا۔
 کھاڑ - کھاڑو - (قی - صفت) بہت بڑھا - فرقوت۔
 کھاڑنا - (قی - مص) [ھ - ا - نکالنا - (۲) گاڑنا - جمانا۔
 کھاڑی - (کھا - ٹی) [ھ - ا - مٹ] [خلیج - پانی کا وہ تنگ تعلق جو دور بہت تنگی میں چلا گیا ہو۔
 کھاس - (ھ - ا - مٹ) وہ جالی دار بورا جس میں اُپلے یا سٹی کے برتن گھروں پر لادتے ہیں۔
 کھا کر - کھا کھر - (کھا - کر) [ھ - ا - مٹ] [دستہ دار کھڑی جس میں لوسے کی زنجیریں لگی ہوتی ہیں اور اس سے گھوڑے کو دوڑانے کی مشق کرتے ہیں۔
 کھا کر (کے) ڈکا کر نہ لینا - (اُر - نسل) [۱۱] پر یا مال لے کر بالکل ہضم کر جانا۔ (۲) قرض لے کر نہ دینا۔
 کھا کسی - (کھا - کسی) [ھ - ا - مٹ] [وہ موٹی موٹی کیریں یا نشان جو بچپن سے بچنے کے بعد زچہ کی راولوں اور پیٹ پر پڑ جلتے ہیں۔
 کھا گل - (۱) [مابغ فعل] کب تک - کہاں تک۔
 کھاگ - (۱) مذ) گینڈے کا سینک جو اکثر خیر، پیش قبض اور دستی پتھروں میں لگا جاتا ہے۔
 کھال - (ھ - ا - مٹ) [۱] چمڑا - چام - چرم - دھوڑی - انسان کے جسم کا پوست۔ (۲) دھونکی - پوست - چھکا - چھال۔
 کھال اُتارنا - (۱) محاورہ) [۱] کسی کے جسم سے پوست جدا کرنا چمڑی دھیرنا۔ (۲) سزا دینا - بدلہ لینا۔
 کھال اُدھیرنا - (۱) محاورہ) [۱] پوست اُتارنا۔ (۲) قہمی یا کور سے ہارنا۔
 کھال بگڑنا - (۱) محاورہ) شامت آنا - رہنے کو جی چاہنا۔

کھال بھیچنا - (۱) محاورہ) چمڑا اُدھیرنا - پوست اُتارنا - زمانہ قدیم کی سزا جس میں زندہ کھم کی کھال اُتو اور اس میں جس سہروا دیا کرتے تھے۔
 کھال میں مست ہونا - (۱) محاورہ) پتہ حال میں خوش ہونا - مگن ہونا۔
 کھالا - (کھا - لا) [ھ - ا - مذ] [۱] وہ نجی زمین جس میں بہت سے ندی نلے ہوں۔ (۲) خار بگڑنا - (۳) ندی نالے۔
 کھالنا - (کھال - نا) [قی - مص] [اگر ہنا۔
 کھام - (قی - ا - مذ) ستون۔
 کھان - (ھ - ا - مٹ) [۱] کان - معدن - (۲) مخزن - منبع - چشہ۔ (۳) افزائش - کثرت - بہتتات - (۴) غارت گری - (قی) [۱] مذ) کھانا۔
 کھان مان - کھانا پانی - (قی) [۱] مذ) کھانا۔
 کھانا - (کھا - نا) [ھ - ا - مذ] [۱] خوراک - طعام - بھوجن - دعوت - ضیافت - مہمانی - (۲) [مص] [۱] نوش کرنا - نکلنا - (۲) حلق سے اُتارنا (۳) ہضم کرنا - اُڑانا - غنیمت کرنا - (۴) رطوبت لینا - (۵) اُڑانا - فضول خرچی کرنا - سہنا - برداشت کرنا - (۶) ڈسنا - ڈنگ مارنا - (۷) مار ڈالنا - قتل کرو دینا - (۸) گلا دینا - بوسیدہ کر دینا - (۹) سُٹنا - (۱۰) برباد کرنا۔
 کھانا س کر دینا - (۱۱) [۱] پریشان کرنا (۲) پٹنا - زور کو ب کرنا۔
 کھانا اور خزانہ - (۱) محاورہ) بی کی سی عادت رکھنا - اپنے من کا احسان فراموش کرنا - ایک تو کھانا دوسرا دھکا کرنا۔
 کھانا پانی حرام کر لینا - (۱) محاورہ) کچھ نہ کھانا۔
 کھانا بڑھانا - (۱) محاورہ) دسترخوان اُٹھانا۔
 کھانا پر یا ہے پیٹ تو پر یا نہیں - (۱) نسل) جب کوئی شخص زیادہ کھا جائے تو کہتے ہیں کہ کھانا پر یا ہے پیٹ تو تہا را اپنا ہے - زیادہ کھا کر تکلیف اُٹھاوے۔
 کھانا پینا - (۱) مذ) [۱] دانہ پانی - آب و خور - (۲) خور و نوش کا خرچ۔
 کھانا پینا ہو کرنا - (۱) محاورہ) رنج یا غصہ دلا کر کھانے پینے کو نمون آلود کرنا۔
 کھا یا پینا خاک میں طمانا - (۱) محاورہ) رنج دلانا۔
 کھانا چوڑا - (۱) محاورہ) وہ طعام اور دو لھا کا پیش قیمت جوڑا جو دلہن کے گھر سے آتا ہے۔
 کھانا چھائی پر رہنا - (۱) محاورہ) کھانا ہضم نہ ہونا۔
 کھانا زہر مار کرنا - (۱) محاورہ) غصے میں کھانا - مجبوری سے کھانا۔
 کھانا کھانا - روٹی کھانا۔
 کھانا کھلانا - (۱) محاورہ) روٹی کھلانا - دعوت دینا - ضیافت کرنا۔
 کھانا نوش کرنا - (مص مرکب) کھانا تول کرنا - کھانا کھانا۔
 کھانا وہاں کھاؤ تو پانی یہاں پیو (ماخذ یہاں دھو) جلد آؤ - فوراً پیلے آؤ۔
 آؤ - آئے ہیں دیر نہ کرو جس طرح بیٹھے ہو اسی طرح چلے آؤ۔
 کھانے کھانے کا ٹھیکر - (۱) مذ) [۱] روزی کاوسید - (۲) کوچی - وہ لڑکی جسے کھانے کے لیے پالا ہو۔
 کھانے کھانے لگنا - (۱) محاورہ) گزارا وقت کرتے لگنا۔

کھانے کو اونٹ کھانے کو بچوں - کھانے کو شیر کھانے کو بکری - (ش)، کھانے میں سب سے زیادہ اور زبردست، کھانے میں سب سے کم اور پست -
 کھانے کو سبم اللہ کھانے کو استغفر اللہ - (۱- ش)، کھانے میں چٹنی اور کام کاج میں لستی کا اظہار - کام چور -
 کھانے کو دوڑنا - (۱- محاورہ) ۵۵، ہمزایا سے پیش آنا - (۲، ڈرانا - ۳)، کاٹ کھانے کو دوڑنا -
 کھانے کے دانٹ اور چہن دکھانے کے اور - (۱- ش)، ظاہر باطن کے خلاف ہے۔ قول کچھ ہے عمل کچھ -
 کھانپ - (۱- ۵- ۱- مٹ)، چانگ - کھڑا -
 کھانچا - (دکان - چا، [۱- ۱- مذ] ۱۵، مرغیوں کے بند کرنے کا اونچا ٹوکرا ٹپا - ۲۵، چھار - خوان - خوا پنچ - (۲۲) وقفہ - دیر - ڈھیل - (۴، فرق - تانیخ - ۵، گڑھا ہورک یا راستے میں ہو -
 کھانچا پڑنا - تسلسل میں فرق ہونا - وقفہ ہونا - ناغہ ہونا -
 کھاندنا - (کھاند - نا، [۱- ۱- معن] ۱۵، ایک جگہ سے کھو کر دوسری جگہ ورت لگانا - (۲، درخت لگانے کے لیے گڑھا کھودنا -
 کھانڈ - (۱- ۵- ۱- مٹ) پھین - شکر سفید -
 کھانڈا - (دکان - ڈا، [۱- ۱- ۱۰- مذ] ایک قسم کی سیدھی دورخی تلوار تینہ - (۲، پھلی کا تھک - (۲، قصائی کا بندا -
 کھانڈا بکنا - (۱- محاورہ) تلوار چلنا - شمشیر زنی ہونا - جنگ ویدل ہونا - کھانڈے کی وھار پر چلنا - (۱- محاورہ) خطرناک کام کرنا -
 کھانٹنا - (دکان - نا، [۱- ۱- معن] ۱۵، کھانسی کی آواز نکالنا - کھول کھول کرنا - کھانٹنا -
 کھانسی - (دکان - سی، [۱- ۱- مٹ] سرف - سُعال - خارش گلو - کھر کھر - کھول کھول -
 کھانکڑ - (۱- ۵- ۱- مٹ) خشک - ٹوکھا ہوا - وہ چیز جو بہت خشک ہو گئی ہو - کھانکھ - (۱- ۵- ۱- مٹ) خندق - کھائی -
 کھانگ - (۱- ۱- ۱- مذ) ہاتھی یا سٹد کے باہر نکلے ہوئے دانٹ - کھاؤ - (دکا - او، [۱- ۵- ۱- مٹ] پرنسور - بہت کھانے والا پیٹو - چٹورا - (۲، رشوت خورد - (۳، بہت خرچ کرنے والا -
 کھاؤ اڑاؤ - (۱- ۱- ۱- معن) فنون خرچ - مصروف - چٹورا - تن پرور - کھاؤ میت - (۱- ۵- ۱- معن) کھانے پینے کا درست - مطلب کا یار -
 مطلب کا آشنا - خود غرض - کھانے بکری کی طرح - شوکے گڑھی کی طرح - (۱- ش) بہت کھا کر ڈبلا نظر آنے والے کی نسبت بولتے ہیں -
 کھانے پر کھایا وہ بھی گنویا - (۱- ش) زیادہ ترس کرنے والا پہلا بیج جتنا بھی کھو بیٹھا ہے -
 کھانے جاتا - (دکا - اے - جا، نا، [۱- ۱- معن] ۱۵، اس موقع پر بولتے ہیں جب کسی چیز سے بے مددغوت معلوم ہوتا ہو - (۲، تقاضا کر کے سنانا -

تھک کرنا -
 کھائیں تو کھی سے نہیں جائیں جی سے - (۱- ش) ہوتو اچھا ہونہیں تو بھوکا مزا منظور ہے -
 کھائیے من بجاتا پھینے جگ بجاتا - (۱- ش) جس چیز کو بھی چاہے وہ کھائی چاہیے، لباس ایسا پہننا چاہیے جو رواج کے مطابق ہو -
 کھایا پیا اگل دینا - (۱- محاورہ) ۵۵، عمر بھر کی کھائی پیش کر دینا - (۲، قے کر دینا - کھایا پیا ایک نہ گنا - (۱- محاورہ) خوراک کا جزو و بدل نہ ہونا - روز بروز ڈبلا اور لاغر ہوتے جانا -
 کھایا پیا نکالنا - (۱- محاورہ) [کنٹینا] خوب پھینا - ایسی محنت لینا کہ آڑی بے حد تھک جائے -
 کھایا ہوا اگلنا پڑا - (۱- ش) جو رقم ماری مٹی وہ دینی پڑی -
 کھتا - (کھت - با، [۱- ۱- معن] ۱۵، بایاں - اگلا - چپ - (۲، [۱- ۱- معن] ۱۵، ہاتھ سے کام کرنے والا -
 کھٹ جانا - کھٹنا - (کھٹ - جا، نا، [۱- ۱- معن] ۱۵، گھس جانا - گڑھا جانا - چھب جانا - (۲، سما جانا - پسند خاطر ہونا نقش ہونا - (۳، دل نشین ہونا -
 کھٹ کھٹ - (ق - معن) غم دار -
 کھٹاے - (کھ - با، [۱- ۱- معن] ۱۵، چھب والے - بانگے - تر چھے کھتی - (کھت - بی، [۱- ۱- ۱- مٹ] کھٹا کی تانیٹ -
 کھٹاٹا - (کھ - پا، ٹا، [۱- ۱- ۱- معن] ۱۵، بانس کی تیلی - کھٹاچ - (کھ - پاچ، [۱- ۱- ۱- مٹ] کھچی - بانس کا کھڑا - پھانس - (۲، [۱- ۱- ۱- معن] ۱۵، نہایت ڈبلا پتلا آدمی -
 کھپا دینا - کھپانا - (کھ - پا، [۱- ۱- ۱- معن] ۱۵، پانا، [۱- ۱- ۱- معن] ۱۵، برتنا صوت کرنا - کام میں لانا - (۲، کھلانا - تحلیل کرنا - (۳، کام تمام کرنا - (۴، تباہ کرنا - برہادر کرنا - (۵، کھونا - گھونا - (۶، ضائع کرنا - (۷، جذب کرنا - پلانا - (۸، [۱- ۱- ۱- معن] ۱۵، سمانا - بھڑنا -
 کھپت - (کھ - پت، [۱- ۱- ۱- مٹ] ۱۵، صرف - خرچ - گھٹائش - گنار - کھائی - کھپت - (کھت - پت، [۱- ۱- ۱- معن] ۱۵، بڑھا - بڑھی - کھپٹا - (کھت - نا، [۱- ۱- ۱- مٹ] ۱۵، گڑھی یا اینٹ کا بنایا ہوا ٹکڑا - (۲، کچے آم کا خشک کیا ہوا ٹکڑا -
 کھچ - (کھ - پچ، [۱- ۱- ۱- مٹ] ۱۵، دیکھنے کھچا - کھچا - (کھت - چا، [۱- ۱- ۱- مذ] گڑھی کا کٹ گیر - کھچھی - (کھت - جی، [۱- ۱- ۱- مٹ] ۱۵، گود - نل - آغوش - کھچی - (کھ - پچ، [۱- ۱- ۱- مٹ] ۱۵، بانس کا چہرا ہوا ٹکڑا - بانس کی تیلی یا پھی - (۲، [۱- ۱- ۱- معن] ۱۵، لاغر - ڈبلا - پتلا -
 کھچتر - (کھت - پتر، [۱- ۱- ۱- مذ] ۱۵، کھوپڑی - سر کی ڈھی - (۲، توہنی - توہنے کا بنا ہوا برتن - (۳، خون کی حیثیت یا قربانی جو دینا کو چڑھائی جاتی ہے - (۴، کھول (ق) - کھچرا - (کھت - را، [۱- ۱- ۱- مذ] ۱۵، چھال - چھکا - پوست - (۲، چھاک -

تاش - (۲) مٹی کا ٹیکھا جو کھیر لے کر پکایا جاتا ہے (۳) ایک قسم کا کھڑا جو
 کھیروں میں پیدا ہوا جاتا ہے۔ شرنبری (۵) پورے پیل کا تیز
 کھیری - (دکھت - ری) [۱- مرث] مٹی کا چھوٹا ٹیکھا (۲) چھوٹا ٹیکھا جس پر
 دوئی پختے ہیں۔
 کھیری ٹمنہ میں لگانا - (۱) محاورہ) تہمت لگانا۔ رُسا کرنا۔
 کھیر لے - (دکھت - ری) [۱- مرث] کھیروں سے چھانی ہوئی چھت
 کھپ کھپاٹ - (ق) [۱- مرث] غصہ - رشک۔
 کھپکھپانا - (دکھت - کھ) پانا، [ق] [بص] [۱۱] غصہ میں آنا۔ رشک و حسد
 کرنا۔ (۲) پھیر کرنا۔ گھٹنا۔
 کھپلا - (دکھت - لا) [۱- مرث] دیکھنے کھپلا۔ (۲) کھڑو۔
 کھپنا - (دکھت - نا) [۱- مرث] [۱۱] صوت ہونا۔ صرخ میں آنا۔ (۲) سانا۔ اٹنا۔
 کسی چیز کا کسی چیز کے اندر آجانا۔ (۳) جذب ہونا۔ شوکنا۔ خشک
 ہونا۔ (۴) پکھا ہونا۔ فروخت ہو جانا۔ (۵) گھٹنا۔ تحلیل ہونا۔ (۶) کام
 آنا۔ مارا جانا۔ (۷) سائی ہونا۔ گزر ہونا۔
 کھتا - (دکھت - تا) [۱- مرث] [۱۱] وہ گڑھا جس میں غلہ بھر کر رکھتے ہیں۔ کھتی۔
 (۲) ذریعہ - ڈھیر - (۳) خزانہ - گنجینہ۔
 کھتر - (ق) خاطر۔
 کھتر - (ق) [۱- مرث] جنگ - رزم گاہ۔
 کھتر - (دکھت - را) [۱- مرث] [۱۱] کونہ - گوشہ۔ (۲) [صفت] جس کے ٹمنہ
 پر سچک کے دلج ہوں۔
 کھترانی - (دکھت - را) [ق] [۱- مرث] [۱۱] کھتری کی تانیٹ - کھتری
 کی جو رو۔ (۲) کھتری قوم کی عورت۔
 کھترتا - (دکھت - رزم) [۱- مرث] [۱۱] کھتریوں کی برادری۔
 کھتری - (دکھت - ری) [۱- مرث] [۱۱] ہندوؤں کی ایک قوم۔
 کھتونی - (دکھت - تو) [ق] [۱- مرث] [۱۱] گاؤں کی زمین کا حساب کتاب مع
 کیفیت تقسیم وغیرہ۔
 کھتونی عام - (۱) مرث] [۱۱] ایک کتاب جس میں سیاہی کی ہر رقم درج ہوتی
 ہے اور پورا پول کے پاس رہتی ہے۔
 کھتی - (دکھت - تی) [۱- مرث] [۱۱] کھتا۔
 کھتی - (دکھت - تی) [۱- مرث] [۱۱] روپے پیسے جمع کرنے کی گولک - خزانہ۔
 دولت۔
 کھتینا - (دکھت - یا) [بص] [۱۱] روزانہ سے نکال کر کھاتے میں پٹھنا۔
 کھاتے میں جمع کرنا۔
 کھٹ - (۱- مرث] [۱۱] چیزوں کے باہم ٹکرانے کی آواز۔
 کھٹ پٹ - (۱) [۱- مرث] جلد جلد چلنے کی آواز۔ (۲) متواتر ٹکرانے کی آواز۔
 (۳) لڑائی جھڑائی۔ اُن بن۔
 کھٹ چھٹ کرنا - (۱) محاورہ) فتنہ و فساد برپا کرنا۔
 کھٹ پٹ ہونا - (۱) محاورہ) لڑائی جھگڑا ہونا۔
 کھٹ کھٹ - (۱) دو چیزوں کے باہم ٹکرانے، ٹوٹے جانے یا بچنے

کی آواز۔ (۲) جھگڑا۔
 کھٹ مٹھا - (۱) [صفت] کھٹا مٹھا۔
 کھٹ - (دھ) [۱- مرث] کھٹا کھٹا کھٹت۔
 کھٹ مٹھا - چارپائی مٹھنے والا۔
 کھٹ مٹھا - (۱) کھٹا مٹھا۔ (۲) ایک پیل جو ڈالتے میں کھٹا مٹھا ہوتا ہے
 کھٹ - (دس) [صفت] سچہ شش۔
 کھٹ راگ - (دس) [۱- مرث] [۱۱] چھ راگ - بھیرن - مالکوس - سری - میگھ۔
 ہنڈول معاورد ویک - (۲) جھگڑا۔ ٹٹھا۔ بکھیرا۔ تفتیبہ۔ عذاب۔
 کھٹ راگ میں پڑنا - (۱) محاورہ) بکھیرے میں پڑنا۔ فضول اور بے کڑ
 کام میں پھنستا۔ جھیلے میں پڑنا۔ جنہاں میں پڑنا۔
 کھٹ - (دھ) [۱- مرث] [۱۱] کسی چیز کے ٹکڑے کی آواز۔ کھٹکا۔ بچوں کے یا کسی
 توڑتے وقت ٹکڑے کے ٹکڑے کے نام کو اوپر کے دانت سے کھٹ کر
 نکلنے کی آواز۔ یعنی یاری کٹ
 کھٹ بڑھی - (دھ) [۱- مرث] کٹھ پوڑا۔ ہرہہ۔ ایک ایسی چرخ والا
 ہرہہ جو درخت کھود کر اس کے اندر اپنا گھر بنا کر رہتا ہے۔
 کھٹا - (دکھت - ٹا) [۱- مرث] [۱۱] ایک ٹریش پیل۔ گھٹل۔ (۲) [صفت]
 ٹریش۔
 کھٹا چوک - (۱) [صفت] نہایت ٹریش۔ بہت کھٹا۔
 کھٹا کھا رہنا - (۱) محاورہ) کسی سے ناراضگی ہونا۔ عشا ہونا۔ خفا ہونا۔
 کھٹا مٹھا - (۱) [صفت] کچھ ترش کچھ شیریں۔ کھٹ مٹھا۔
 کھٹا مٹھا ہونا - (۱) محاورہ) [۱۱] دل لپٹانا۔ لالچ ہونا۔ منہ میں پانی بھر
 آنا۔ (۲) شکر رنجی ہونا۔ اُن بن ہونا۔
 کھٹا ہو جانا - کھٹا ہونا - (۱) محاورہ) [۱۱] ترش ہو جانا۔ (۲) اچار کا تیار
 ہو جانا۔ (۳) سر ہو جانا۔ (۴) بیزار اور متنفر ہو جانا۔
 کھٹے مٹھے دن - (۱) محاورہ) بڑے دن۔ کڑوے کیلے دن۔ (۲) ایام صل۔
 کھٹا پٹ - (دکھت - ٹا) [۱- مرث] [۱۱] اُن بن۔ لڑائی۔ ٹکرار۔
 ناراضگی۔ ناچاقی۔ (۲) ہتھیاروں یا کسی چیز کے متواتر ٹکرانے کی آواز۔
 کھٹا پٹی - (دکھت - ٹا) [۱- مرث] [۱۱] ہتھیاروں کا باہم ٹکرانا۔ (۲) لڑائی
 جھگڑا۔ ٹکرار۔ جگاڑ۔ ناموافقت۔
 کھٹا پٹی ہونا - (۱) محاورہ) اُن بن ہونا۔ ناموافقت ہونا۔ زنجبش ہونا۔
 لڑائی ہونا۔ جھگڑا ہونا۔ شکر رنجی ہونا۔
 کھٹاس - (دکھت - ٹاس) [۱- مرث] [۱۱] ترشی۔ کھٹائی۔ (۲) خشکی۔ ناراضگی۔
 ہر مزگی۔ کلفت۔ (۳) ایک قسم کا نیولا۔
 کھٹا کا - (دکھت - ٹا) [۱- مرث] [۱۱] دو چیزوں کے ٹکرانے کی آواز۔ گرنے یا
 ٹوٹنے کی آواز۔ کھڑکا۔
 کھٹا ہونا - (ق) [بص] [۱۱] آزرہ ہونا۔ رنجیدہ ہونا۔
 کھٹائی - (دکھت - ٹا) [۱- مرث] [۱۱] ترشی۔ کھٹاس۔ کھٹاپن۔ (۲) کچے
 آم کی ٹوکھی ہوئی چٹائیں۔ اچور۔
 کھٹائی کھانا - (۱) محاورہ) [۱۱] ترشی کھانا۔ (۲) ترشی سے وضعت رکھنے والا۔

کھٹیک - دکھ - ٹیکٹ - [ھ - ۱۔ مذ] چھڑا رنگنے والا - (۲) ہندوؤں کی ایک قوم جس کا پیشہ عموماً ہر قسم کے جانور پالنے اور رکھنے کا ہے - اہیری -

کھج - [ھ - ۱۔ مش] رنجیدگی - ملال - رنج - تنگی - ناراضی - چڑچڑ - کھجانا - [دکھ - جاننا] [ھ - ۱۔ مصل] [چڑھانا - چھیرنا - جلانا - ناراض کرنا - کھجانا - کھجلاانا - [دکھ - جاننا - کھج - لا - نا] [ھ - ۱۔ مصل] [سہلانا - ناخس سے کھرجنا - (۲) خارش ہونا - چل ہونا کھجلی ہونا - (۳) تنقیر - سراہنا - تعریف کرنا -

کھجلا - [کھج - لا] [ھ - ۱۔ مذ] ایک قسم کی خشخشی پوری جس میں چار چھید اور پرت پرت مینڈر ہوتے ہیں -

کھجلا ہنٹ - [کھج - لا - ہنٹ] [ھ - ۱۔ مش] [خارش - کھلی - چل - کھجلی - [کھج - لی] [ھ - ۱۔ مش] [خارش - کھج - خارشٹ - چل - کھجلی آٹھنا - (۱) عمارت (۲) خارش ہونا - چل آٹھنا - (۳) چلنے یا مار کھلنے کو بھی چاہتا - (۴) عوامی جماع کا ذکر کرنا -

کھجور - [دکھ - جوار] [ھ - ۱۔ مش] [۱۰] گرما - (۲) درخت خرما - (۳) ایک قسم کی مٹھانی جس پر کھجور کی مانند نشان ڈال کرتے ہیں -

کھجور چھڑی - [ھ - ۱۔ مش] ایک قسم کا ریشی کپڑا جس پر کھجور کی ڈنڈوں کے شاخ چھڑیاں بنی ہوتی ہیں -

کھجوروا - [دکھ - جوار] [ھ - ۱۔ مش] جس میں پھل نہیں گتتا -

کھجوری - [دکھ - جو - ری] [ھ - ۱۔ مش] کھجور سے منسوب کھجور کی وضع کا کھجور کی تہنی یا درخت کی مانند -

کھجوری چوٹی - [ھ - ۱۔ مش] پرواز مضبوط - گندھے ہوتے ہال -

کھچیا - [کھج - چا] [ھ - ۱۔ مش] [۱۰] تنا ہوا - کسا ہوا - کھچا ہوا - (۲) کشیدہ - ناراض - (۳) گراں - ہنگامہ -

کھچا جانا - (۱) عمارت (۲) گراں ہوا جانا - بجاد چڑھنا جانا - (۳) کشش کے سبب کسی طرف چلا جانا -

کھچا چلا آنا - (۱) عمارت کشش سے چلا آنا - (۲) مال کا تیزی سے چلا آنا - کھچا رہنا - (۱) عمارت (۲) الگ اور دور دور رہنا - (۳) رکا رہنا - (۴) آزرہ رہنا - کشیدہ رہنا -

کھچا کھچا - (۱) صفت ناراض - کشیدہ خاطر -

کھچا کھچ - [دکھ - چا - کھچ] [۱۔ صفت] [خوب بھرا ہوا - بکشت - کثرت سے - کھچا وٹ - [دکھ - چا - وٹ] [ھ - ۱۔ مش] [۱۰] تناوٹ - کساوٹ - (۲) کشش - جذب - (۳) رکاوٹ - کشیدگی - انقباض -

کھچا وٹ - [دکھ - چا - وٹ] [ھ - ۱۔ مذ] تناؤ - کساؤ - کھاوٹ - کشیدگی - کھج جانا - [کھج - جاننا] [ھ - ۱۔ مصل] [۱۰] آزرہ اور خفا ہو کر ترک ملاقات کرنا - (۲) کنارہ کش ہو جانا -

کھچڑی - [دکھ - چڑی] [ھ - ۱۔ مش] [۱۰] ایک عموماً جو وال اور چال ملا کر پکاتے ہیں - (۲) بیری کا پھول - (۳) ملی ملی اشتریاں و روپے (۴) خفیہ صلاح مشورہ - (۵) سیاہ اور سفید ہال - (۶) خلط ط - ملا جلا -

کھچڑی آنا - (۱) عمارت (۲) بیری کے درخت میں پھول آنا - (۳) پھٹی کے روز زہر کے لیے سیکے سے کھچڑی آنا -

کھچڑی پکانا - (۱) عمارت (۲) وال اور چال ملا کر پکانا - (۳) خفیہ صلاح مشورہ کرنا - سازش کرنا -

کھچڑی پکنا - (۱) عمارت کسی کام کے متعلق خفیہ صلاح مشورہ ہونا - کھسر چھس ہونا - بچکے بچکے پر چاہنا -

کھچڑی پکے کھد بڈھوں - (۱) نسل (۲) فضول اور احمقانہ حرکت -

کھچڑی ڈواڑھی - (۱) مش (۲) وہ ڈواڑھی جس میں کچھ سیاہ ہال ہوں اور کچھ سفید -

کھچڑی کھلتے پہنچا آتزا - (۱) عمارت (۲) ناسخ کی اور چھوٹی نزاکت جتاننا - کمال نازک ہونا -

کھچڑی ہوجانا - (۱) عمارت (۲) بالوں کا سیاہ اور سفید ہوجانا - (۳) گڑ گڑ ہوجانا - بل بل جانا -

کھچ - [کھج - کھچ] [ھ - ۱۔ مش] کھچڑی میں پلنے کی آواز -

کھچ کے ہلنا - (۱) عمارت (۲) صاف دلی سے ہلنا -

کھچم کھچا - (۱) مذ (۲) دکھلا پیل - کش کش - زیادہ آدمیوں کا ایک ہی چیز کو اپنی طرف کھینچنا -

کھچنا - [کھچ - نا] [ھ - ۱۔ مصل] [۱۰] کسا ہوا - تننا - (۲) کھشنا - (۳) کنارہ کش ہونا - کشیدہ ہونا - (۴) عرق ٹھکانا - (۵) عرصہ گنا - طول چڑھنا - (۶) آتزا - نقل ہونا - (۷) گراں ہونا - ہنگامہ ہونا - (۸) کشش ہونا -

کھچوانا - [کھچ - وا - نا] [ھ - ۱۔ مصل] [۱۰] کھینا کا متعدی -

کھداننا - [دکھ - دا - نا] [ھ - ۱۔ مذ] وہ گڑھا جہاں سے پکینی مٹی کھودتے ہیں -

کھدائی - [دکھ - دا - ای] [۱۔ مش] [۱۰] کھودنے کا فعل - (۲) کھدوانے کی آہٹ (۳) کندہ کاری -

کھد پد - [دکھ - پد] [ھ - ۱۔ مش] کسی اناج کے اُبلنے کی آواز - پکھنے کا شور -

کھد بدانا - [دکھ - ب - دا - نا] [ھ - ۱۔ مصل] [۱۰] ہلنا - پکنا - کھولنا -

کھد بدی - (۱) مش (۲) ہل پل - ٹکروا نہ ریشہ - (۳) شوق و ہوس -

کھد د - [دکھ - ڈ - ڈ] [ھ - ۱۔ مذ] [۱۰] ہونا - کھدوراسینہ ویسی کپڑا - (۲) موٹا کھدورا -

کھدرا - [دکھ - را] [ھ - ۱۔ مصل] [۱۰] کھدورا - ناہوار - آونچا نچا -

کھد رٹنا - [دکھ - ڈرٹنا] [ق - مصل] [۱۰] ہلنا -

کھد نا - [دکھ - نا] [ھ - ۱۔ مصل] [۱۰] کندہ ہونا - کھودا جانا - (۲) نقش کیا جانا -

کھدنا - [دکھ - نا] [ھ - ۱۔ مصل] [۱۰] مسمار ہونا -

کھدنی - [دکھ - نی] [ھ - ۱۔ مش] [۱۰] خلال - (۲) کھدائی - دولت کی

کھردرا - (کھڑو۔ را) [صفت] ناہموار۔ راندار۔ اونچا نیچا۔
 کھردرا پن - (۱۔ صفت) ناہمواری۔ کھرا کھاٹ - (۲۰) درشتی۔
 کھرسا - (کھڑ۔ سا) [صفت] ۱۔ مذ [خشک موسم] وہ موسم جس میں گرمی کے باعث گھاس وغیرہ میل جاتی ہے۔ (۲)۔ نقطہ۔ کال [خشک سالی۔
 کھرسلا - (کھڑ۔ سے۔ لا) [صفت] کھلے والا۔ نارشتی۔
 کھرک - (کھڑ۔ رکت) [صفت] ۱۔ مذ [باڑ۔ وہ مکان جس میں چوپائے بند کیے جاتے ہیں۔
 کھرا کھرا - (کھڑ۔ کھرا) [صفت] ۱۔ مذ [کھردرا۔ ناہموار۔ (۳)۔ مذ] خرخرنا۔
 کھریا۔
 کھروگولیا - (کھڑ۔ گول۔ یا) [صفت] کینہ۔ کو عقل۔ سفید۔
 کھروں - (کھڑ۔ زول) [صفت] ۱۔ صفت [ایک قسم کی پتھر کی گوندی جو دوا میں پیسنے اور صل کرنے کے کام آتی ہے۔
 کھروں کرنا - (۱)۔ محاورہ کسی دوا کو کھروں میں حل کرنا۔ خوب باریک کرنا۔
 کھرونی - (کھڑ۔ نی) [صفت] ۱۔ صفت [چرواہوں کو چارہ دینے کی جگہ۔
 کھروں - (۱)۔ مذ [سیاہ معلقہ جو طبلہ پر جاتے ہیں۔
 کھروںجا - (کھڑ۔ زول) [صفت] ۱۔ مذ [۱) کھرونی ایٹھوں کا فرش۔ (۲)۔ پتھر کا فرش یا سٹوک۔
 کھروںڈ - (کھڑ۔ زول) [صفت] ۱۔ مذ [زخم کا انگہ۔ وہ خشکی جو زخم اچھا ہو جانے کے بعد اس کے اوپر جم جاتی ہے۔
 کھروںڈ بندھنا۔ کھروںڈ جینا۔ (۱)۔ محاورہ زخم کا انگوڑ بندھ کر اس پر نیکی آمانا۔ زخم کے اوپر پڑی بندھ جانا۔
 کھرونی - (کھڑ۔ نی) [صفت] ۱۔ صفت [ایک درخت اور اس کا میٹھا پھل۔
 کھروٹ - (۱)۔ مذ [منڈی۔ وہ شہر جس میں منڈی ہو۔ (۲)۔ وائیں کوہ گاؤں۔
 کھروچا - کھروچجا - (کھڑ۔ رو۔ چا۔ کھ۔ روں۔ چا) [صفت] ۱۔ مذ [خوشاں رگڑ۔
 کھروچینا - (کھڑ۔ روچ۔ نا) [صفت] ۱۔ صفت [نوحینا۔ پنجر مارنا۔
 کھروٹٹ - (کھڑ۔ روٹٹ) [صفت] ۱۔ صفت [دیکھو کھروچا۔
 کھرونی - (کھڑ۔ ری) [صفت] ۱۔ صفت [کھرونی تائینٹ۔ خالص۔ بے میل۔ صاف۔ چوکھی۔ عمدہ۔ صاف گو۔
 کھرونی بات - (۱)۔ صفت [بے لگاؤ بات، جس میں کسی کی طرف داری نہ ہو۔
 کھرونی بولی - (۱)۔ صفت [خالص زبان۔ (۲)۔ محکمی زبان۔
 کھرونی سنانا - (۱)۔ محاورہ صاف صاف سنانا۔ لگی لپیٹ نہ رکھنا۔
 کھرونی مزدوری چوکھا کام - (۱)۔ صفت [نقد مزدوری دینے سے کام بہت اچھا اور جلد جاتا ہے۔
 کھرونی - (کھڑ۔ ری) [صفت] ۱۔ صفت [جوئی کے نلے کا وہ حصہ جو اریڑی کے نیچے رہتا ہے۔ جوئی کا وہ حصہ جہاں نعل لگاتے ہیں۔
 کھرونی - (کھڑ۔ ری) [صفت] ۱۔ صفت [کھرونی تائینٹ۔ کھرونی چارپائی وہ

چارپائی جس پر کھچوٹا نہ ہو۔
 کھرونی چارپائی پر سو کے آتے ہوں۔ (۱)۔ مثل (جیب کوئی شخص خواہ مخواہ بد مزاجی کی باتیں کرتا ہے تو اس سے کہتے ہیں۔ یعنی یہ بد مزاجی بد خوئی کا نتیجہ تو نہیں ہے۔
 کھرونی کھاٹ - (۱)۔ صفت [۱۔ صفت] وہ پتنگ جس پر کھچوٹا نہ ہو۔
 کھروے دام - (۱)۔ مذ [پوری قیمت۔
 کھروے رہے - (بول چال) اچھے رہے۔ فائدے میں رہے۔
 کھرویا - (کھڑ۔ یا) [صفت] ۱۔ صفت [ایک قسم کی سفید مٹی۔ چاک۔
 کھرویا میں کوئلہ - (۱)۔ صفت [ناموزوں اور بے میل بات۔
 کھرویا - (کھڑ۔ یا) [صفت] ۱۔ صفت [۱) کھرویا چنے کا کٹوری جیسا آلہ۔ (۲)۔ کھٹنے کی چینی۔
 کھرونیلہ - (کھڑ۔ رے۔ را) [صفت] ۱۔ مذ [گھوڑے کے بال صاف کرنے اور گرد نکالنے کا آہنی کنگھا۔ کھروکھا۔
 کھروٹ - (۱)۔ صفت [۱)۔ صفت [۱) قیسی موتی کا ریزہ۔ (۲)۔ کالج کا ٹکڑا۔ (۳)۔ گھاس۔
 کھروٹا - (کھڑ۔ ٹا) [صفت] ۱۔ صفت [۱) سیدھا۔ اٹھا ہوا۔ قائم۔ (۳)۔ کچھا۔ اودھ گلا۔ (۴)۔ کچی سلائی کیا ہوا۔ (۵)۔ عمود۔ (۶)۔ بغیر ٹا ہوا کھیت۔ (۷)۔ نصب۔ برقرار۔
 کھروٹا پانی - (۱)۔ مذ [وہ پانی جو بہتا نہ ہو۔ بند پانی۔
 کھروٹا پانی نہ پینا - کھروٹے پانی نہ پینا۔ (۱)۔ محاورہ تڑت چلا جانا۔ نوز چلا جانا۔ ذرا نہ ٹھہرنا۔ نہایت نفرت یا خشکی کے موقع پر بولا کرتے ہیں۔
 کھروٹا پچھلے کھانا - (۱)۔ محاورہ بچے کا شغف یا ضد کے سبب اپنے آپ کو ہلکا کرنا۔ کھروٹے ہو سو کر گر پڑنا۔ (۲)۔ اچانک کوئی صدر بہتینا۔
 کھروٹا داؤں - (۱)۔ صفت [تیار بازی میں وہ داؤں جو چلتے چلتے گیا جاتا ہے۔
 آخری دانگ۔
 کھروٹا دونا - (۱)۔ صفت [حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی نیاز جو مراد پوری ہونے پر فوراً دی جاتی ہے۔
 کھروٹا رکھنا - (۱)۔ محاورہ [استادہ اور قائم رکھنا۔ (۲)۔ حساب چلتا رکھنا۔ باقی رکھنا۔ بے باقی نہ کرنا۔
 کھروٹا رہ جانا - (۱)۔ محاورہ [حیرت یا محویت میں کھروٹا رہ جانا۔
 کھروٹا رہنا - (۱)۔ محاورہ [۱)۔ صفت [کھروٹا رہنا۔ (۲)۔ استادہ رہنا۔ منتظر رہنا۔ راہ نکھنا۔
 کھروٹا زبر - (۱)۔ مذ [عربی رسم الخط میں وہ چھوٹا الف جو کسی حرف پر ڈال دیا جاتا ہے۔
 کھروٹا زبر - (۱)۔ مذ [وہ زبر ہے یا تے جموں کی طرح پڑھا جاتے۔
 کھروٹا کر کے دکھانا - (۱)۔ محاورہ [مانگنے کے جواب میں انگوٹھا کھرا کر کے دکھانا۔ صاف انکار کرنا۔

کھڑا کرنا - (۱) محاورہ (۱) استنادہ کرنا، اٹھانا، سیدھا کرنا۔ (۲) برپا کرنا۔ (۳) ٹھہرانا، روکنا۔ (۴) جاری کرنا۔ قائم کرنا۔ (۵) کچی سلائی کرنا (۶) نصب کرنا۔ گاڑنا۔ (۷) گمانا حاصل کرنا۔

کھڑا کھیت - (۱) مذ۔ سبز کھیت جو ابھی کاٹنا نہ گیا ہو۔ (۲) لمبا میدان۔ کھڑا کھیل - (۱) مذ۔ ترت کا معاملہ۔ ہاتھوں ہاتھ کا کام۔

کھڑا اک میں پڑنا - (۱) محاورہ، جھیلے میں پڑنا، فضول باتوں میں لگنا۔ کھڑا کھیل فرخ آبادی - دیکھیے کھرا کھیل۔ کھڑا نقشہ - (۱) مذ۔ لمبا چہرہ۔

کھڑا ہونا - (۱) اٹھنا۔ استنادہ ہونا۔ (۲) گھوڑے کا چراغ پانہونا۔ (۳) برپا ہونا۔ بنیاد پڑنا۔ (۴) ٹھہرنا۔ سھتنا۔ (۵) گڑنا۔ نصب ہونا۔ (۶) کٹنا۔ پٹیہ [کٹنا پٹیہ] لڑنے پر آمادہ ہونا۔ (۷) حاصل ہونا۔ ہاتھ لگنا۔ (۸) کسی سرکاری ادارہ یعنی آبپاشی وغیرہ کے لیے بطور امیدوار کھڑا ہونا۔

کھڑے پاؤں - (۱) تابع فعل، کھڑے کھڑے۔ فوراً۔ اسی وقت۔ ترت۔ کھڑے پاؤں بیچک دینا - (۱) محاورہ، فوراً حضرت علی کرم اللہ وجہہ شکرہ کی نیاز دلوانا۔ منت اور کرنا۔ ہاتھوں ہاتھ فائنڈ یا نیاز دلوانا۔

کھڑے پیر کا روزہ رکھنا - (۱) محاورہ، برابر کھڑے رہنا۔ بیٹھنے کا نام نہیں۔

کھڑے ترڑے - (۱) تابع فعل، کبھی کبھی۔ لگے لگے۔

کھڑے رہ جانا - (۱) محاورہ، محروم رہ جانا۔

کھڑے شوکھ کرنا - (۱) محاورہ، کسی کے انتظاریں دیر تک کھڑے رہنا۔

کھڑے کا کھڑا رہ جانا - (۱) محاورہ، حیران رہ جانا۔

کھڑے کرنا - (۱) نقد کرنا۔ اٹھانا۔ حاصل کرنا۔ جمع ہاتھنا۔

کھڑے کھڑے - (۱) تابع فعل، (۲) فوراً۔ جلد۔ مشتاب، اسی وقت۔ (۳) ذرا کی ذرا۔ ٹھوڑی سی دیر کو۔ بے تاثیر۔ (۴) دیر تک کھڑے رہ کر۔ عرضتک انتظار کر کے۔

کھڑے کھڑے پھرنا - (۱) محاورہ، مضطرب پھرنے پر قرار پھرنے۔ پیٹ پڑے پھرنے۔ نہایت مملانا۔ گھبراہٹ گھبراہٹ پھرنے۔

کھڑے کھڑے ہوجانا - (۱) محاورہ، ذرا کی ذرا ہوجانا۔ لمحہ بھر کو آجانا۔

کھڑے کھڑے دیر کو آجانا۔

کھڑے گھاٹ کپڑے ڈھلوانا - (۱) محاورہ، کھڑے کھڑے کپڑے ڈھلانا۔ کپڑے ڈھلنے کی جگہ جا کر کپڑے ڈھلوانا۔

کھڑا اڑا - (۱) مذ۔ ڈرنا۔ کھڑا کھڑا - (۱) مذ۔ ڈرنا۔ کھڑا کھڑا - (۱) مذ۔ ڈرنا۔ کھڑا کھڑا - (۱) مذ۔ ڈرنا۔ کھڑا کھڑا - (۱) مذ۔ ڈرنا۔

کھڑا کھڑا - (۱) مذ۔ ڈرنا۔ کھڑا کھڑا - (۱) مذ۔ ڈرنا۔ کھڑا کھڑا - (۱) مذ۔ ڈرنا۔ کھڑا کھڑا - (۱) مذ۔ ڈرنا۔

کھڑا کھڑا - (۱) مذ۔ ڈرنا۔ کھڑا کھڑا - (۱) مذ۔ ڈرنا۔ کھڑا کھڑا - (۱) مذ۔ ڈرنا۔ کھڑا کھڑا - (۱) مذ۔ ڈرنا۔

کھڑا کھڑا - (۱) مذ۔ ڈرنا۔ کھڑا کھڑا - (۱) مذ۔ ڈرنا۔ کھڑا کھڑا - (۱) مذ۔ ڈرنا۔ کھڑا کھڑا - (۱) مذ۔ ڈرنا۔

کھڑا کھڑا - (۱) مذ۔ ڈرنا۔ کھڑا کھڑا - (۱) مذ۔ ڈرنا۔ کھڑا کھڑا - (۱) مذ۔ ڈرنا۔ کھڑا کھڑا - (۱) مذ۔ ڈرنا۔

کھڑا کھڑا - (۱) مذ۔ ڈرنا۔ کھڑا کھڑا - (۱) مذ۔ ڈرنا۔ کھڑا کھڑا - (۱) مذ۔ ڈرنا۔ کھڑا کھڑا - (۱) مذ۔ ڈرنا۔

کھڑا کھڑا - (۱) مذ۔ ڈرنا۔ کھڑا کھڑا - (۱) مذ۔ ڈرنا۔ کھڑا کھڑا - (۱) مذ۔ ڈرنا۔ کھڑا کھڑا - (۱) مذ۔ ڈرنا۔

کھڑا کھڑا - (۱) مذ۔ ڈرنا۔ کھڑا کھڑا - (۱) مذ۔ ڈرنا۔ کھڑا کھڑا - (۱) مذ۔ ڈرنا۔ کھڑا کھڑا - (۱) مذ۔ ڈرنا۔

کھڑا کھڑا - (۱) مذ۔ ڈرنا۔ کھڑا کھڑا - (۱) مذ۔ ڈرنا۔ کھڑا کھڑا - (۱) مذ۔ ڈرنا۔ کھڑا کھڑا - (۱) مذ۔ ڈرنا۔

کھڑا کھڑا - (۱) مذ۔ ڈرنا۔ کھڑا کھڑا - (۱) مذ۔ ڈرنا۔ کھڑا کھڑا - (۱) مذ۔ ڈرنا۔ کھڑا کھڑا - (۱) مذ۔ ڈرنا۔

کھڑا کھڑا - (۱) مذ۔ ڈرنا۔ کھڑا کھڑا - (۱) مذ۔ ڈرنا۔ کھڑا کھڑا - (۱) مذ۔ ڈرنا۔ کھڑا کھڑا - (۱) مذ۔ ڈرنا۔

کھڑا کھڑا - (۱) مذ۔ ڈرنا۔ کھڑا کھڑا - (۱) مذ۔ ڈرنا۔ کھڑا کھڑا - (۱) مذ۔ ڈرنا۔ کھڑا کھڑا - (۱) مذ۔ ڈرنا۔

علانیہ - ڈنکنے کی چوٹ - (۲) بے تکلف - آزادانہ ظاہر - (۳)
 وہ شخص جو پابند نہ ہو -
 کھلے بالوں - (۱) صفت، بال کھولے - بے حجابانہ -
 کھلے بھواؤ - (۱) صفت، عام نرخ سے -
 کھلے میدان میں - (۱) تابع فعل، اعلانیہ -
 کھلا بی - دکھ - لا - ب - لی (۱) - (۱) صفت [۱-۱] دیکھیے کھلی -
 کھلا جانا - (۱) محاورہ، خوشی سے ہنسنے جانا -
 کھلا ر - (دکھ - لاؤ) [۱-۱] مذ [۱] ڈھولان جگہ - (۲) خار - گرٹھا - تہہ -
 کھلاڑ - (دکھ - لاؤ) [۱-۱] صفت [۱] فاحشہ - مردوں کے ساتھ کھیلنے
 والی بدکار عورت - (۲) مذ [۱] وہ شخص جو عیب شہی اور لہو و لب
 کی طرف مائل ہو -
 کھلاڑ پن - (۱) صفت، مہنٹ، چھینال پن - چھینالا - شوخی، چنپل پن -
 کھلاڑن - (دکھ - لاؤ) [۱-۱] صفت [۱] دیکھیے کھلاڑ
 کھلاڑی - (دکھ - لاؤ) [۱-۱] صفت [۱] کوئی کھیل یا بازی جاننے والا -
 استاد - (۲) بخاری - جوا - کھیلنے والا - (۳) کھنڈرا - کھیل کود میں
 مصروف رہنے والا -
 کھلال - (قی - صفت) تریتر -
 کھلا لا - (دکھ - لاؤ) [۱-۱] مذ [۱] بہت شور کرنے والی ندی، نالہ یا
 چشمہ - (۲) سر پر پانی ڈال کر نہانا -
 کھلانا - (دکھ - لاؤ) [۱-۱] صفت [۱] تناول طعام کرنا - (۲) دعوت دینا -
 روٹی کرنا - (۳) بھلانا - بچے کا دل خوش کرنا - (۴) شگفتہ کرنا -
 (۵) دانہ دانہ الگ کرنا - (۶) مال چٹ کرنا - (۷) پٹوانا - (۸)
 کیلیں کرنا یا پھیلانا - (۹) خستہ کرنا - بھڑ بھڑ کرنا -
 کھلاؤ - (دکھ - لاؤ) [۱-۱] صفت [۱] دوسروں کو مال کھلانے والا - دیال -
 سخی -
 کھلائی - (دکھ - لاؤ) [۱-۱] صفت [۱] خوراک - خورکس - (۲) خوراک
 کی قیمت - (۳) بچوں کو کھلانے والی عورت - دایہ -
 کھلائی پلائی - (۱) صفت [۱] کھانے پینے کی قیمت -
 کھلائے سونے کا ٹوالہ - دیکھیے شیر کی نظر - ڈار - شل، اولاد کو کھلانے
 تو حجب و تزواہ، مگر ادب و تہذیب سکھانے کے لیے اپنا
 رعب ضرور قائم رکھے -
 کھلانے کا نام نہیں لگائے کا نام ہے - (۱) مش - (۲) نیک کام
 کی کوئی داؤ نہیں دیتا، مگر کسی بات فوراً پکڑ لی جاتی ہے -
 کھلیلا - (دکھن - ب - لاؤ) [۱-۱] صفت [۱] بے چین -
 کھلیلا نا - (۱) صفت، کھولنا - اُبلنا، جوش میں آنا -
 کھلیلا ہٹ - (۲) صفت، ایک ٹکڑے میں دوسری ٹکڑے پیش آنے کی گھبراہٹ
 اضطراب -
 کھلیں - (دکھن - ب - لی) [۱-۱] صفت [۱] ہل چل - ہنگامہ - فتنہ -
 شور و شر - فتنہ و فساد - (۲) گھبراہٹ - اضطراب - بے قراری -

جلدی -
 کھلی پڑنا - کھلی چینا - (۱) محاورہ [۱] ہل چل ہونا - ہنگامہ برپا ہونا -
 شور و شر ہونا - ہڑ چینا - (۲) گھبراہٹ ہونا - اضطراب اور بے قراری
 ہونا - جلدی پڑنا -
 کھل بیٹھنا - (دکھن - بیٹھ - نا) [۱-۱] محاورہ [۱] اچھی طرح آرام سے
 چار زانو ہو کر بیٹھنا - ولی کدورت ظاہر ہونا -
 کھل پڑنا - (دکھن - پڑ - نا) [۱-۱] صفت [۱] بے تکلف ہونا - شرم کو
 درمیان سے اٹھا دینا - (۲) کسی چیز کا کھل کر گر پڑنا -
 کھلنا ہوا - (۱) صفت، موزوں - صاف -
 کھل جا سٹم سٹم - (۱) مذ [۱] جاؤ کے وہ الفاظ جن کے لوستے سے خزانے کا
 دروازہ کھل جاتا ہے - الفت لیلی کی کہانی میں اس کا ذکر ہے -
 کھل جانا - (دکھن - جانا) [۱-۱] صفت [۱] دیکھیے کھلنا -
 کھل جانا - (۱) محاورہ، شگفتہ ہونا - عموماً عموماً ہونا -
 کھلاڑ - (دکھن - لڑ) [۱-۱] صفت [۱] وہ لڑھی عورت جس کے جسم پر گوشت
 کی بجائے کھال ہی کھال ہو - (۲) بچہ سے کی گئی -
 کھلاڑی - (دکھن - لڑی) [۱-۱] صفت [۱] کھال کی تصنیف پرست - جیڑا - کھال
 کھل کر (دکھ) [۱-۱] صفت [۱] (۱) آرام سے اچھی طرح -
 آزادانہ - جی کھول کر - (۲) بے حجاب ہو کر - بے تکلف ہو کر -
 (۳) ظاہر - علانیہ
 کھل کر بیٹھنا - (۱) محاورہ، دیکھیے کھل بیٹھنا -
 کھل کر کہنا - (۱) محاورہ، صاف صاف کہنا - اعلانیہ کہنا -
 کھل کھل - (۱) صفت [۱-۱] صفت [۱] شگفتہ یا تہذیب کی آواز -
 کھلکھلا کر (دکھ) ہنسنے - (۱) محاورہ، زور سے ہنسنے -
 تہذیب مازنا - بہت ہنسنے - خندہ زنی کرنا - خرم و شاداں ہونا -
 کھلکھلانا - (دکھن - کھ - لاؤ) [۱-۱] صفت [۱] آوازوں کا گڑ گڑ بولنا -
 پیٹ بولنا
 کھل کھینٹنا - (دکھن - کھینٹ - نا) [۱-۱] صفت [۱] شرم و حجاب اٹھا کر علفیہ
 کوئی محبوب کام کرنا - مطلق آزاد ہو جانا - شرم و حجابا لائے
 طاق رکھنا -
 کھلکا - (دکھن - گا) [۱-۱] صفت [۱] جھینسا -
 کھلکھلا - (دکھن - کھل - لڑ) [۱-۱] صفت [۱] بے روک ٹوک - علانیہ -
 کھلنا - (دکھن - نا) [۱-۱] صفت [۱] ناگوار ہونا - ڈوہر ہونا -
 کھلنا - (دکھن - نا) [۱-۱] صفت [۱] ملی کا پھولنا - پھول کا شگفتہ ہونا - (۲)
 پھول آنا - (۳) خوش ہونا - ہنسنے - (۴) زریب دینا - چھیننا -
 جینا - کھننا -
 کھلنا - (دکھن - نا) [۱-۱] صفت [۱] ظاہر ہونا - معلوم ہونا - کسی بندھی ہوئی چیز کا
 واہو جانا - (۲) پھٹ جانا - شق ہو جانا - (۳) عریاں ہو جانا - نکا ہونا -
 (۴) اُدھر دجانا - (۵) کسی ٹڑا ہانا - (۶) صاف ہونا - کٹا دہ ہونا - (۷)
 جاری ہونا - بہنے لگنا - (۸) بے تکلف و بے حجاب ہو جانا - شرم اٹھ جانا -

کھانڈ جانا رہنا - (۹) ابریا کھٹا کھٹ کر مطلع صاف ہو جانا - بادل نہ رہنا - (۱۰) آزاد ہونا - (۱۱) مزین ہونا - چھب جانا - (۱۲) گرسے جانا رہنا - (۱۳) رول نہ رہنا - بے کام ہو جانا -

کھنڈرا - دکھ - کٹڈ - (۱) صفت [کھلاڑی - کھیل کود میں مشغول بستے والا -

کھنڈری - دکھ - کٹڈ - (ری) صفت [کھنڈرا کی تائیت -

کھنڈو - (کھن - نو) صفت - (۱) مذ و مش [ہر وقت ہنستی ہنستا] رچنے والی - (وال) کھنڈری - کھنڈرا -

کھنڈو باولی - (۱) صفت - بے موقع ہنسنے والی - ہنسور -

کھلوانا - (کھن - وانا) صفت [میں] کھلانا کا متغی -

کھلوانا - (کھ - نو) صفت - (۱) صفت [بچوں کے کھیلنے کی چیز - (۲) نازک اور دکھاوے کی چیز - (۳) خوش طبع یا مسخر آؤمی -

کھلی - (کھ - لی) صفت - (۱) صفت [بچوں کا چھوک - کھن -

کھلی - (کھن - لی) صفت [بہنسی - ٹھنڈا - چھل - مذاق - مسخر -

کھلی اڑانا - کھلی کرنا - (۱) مجاورہ [بہنسی اڑانا - مذاق کرنا - چھیرنا - رسوا کرنا - فہمیت کرنا -

کھلیان - (کھن - بیان) وہ جگہ جہاں جنس میں سے نازک برسا کر ڈھیر لگتے ہیں - عرمین - نئے کا انبار - کوشی -

کھلیان کر دینا - (۱) مجاورہ [توڑ پھوڑ کر ڈھیر کر دینا - نینا ناس کر دینا - توڑ بال کر دینا - تباہ و برباد کر دینا -

کھم - (کھ - نڈ) صفت - (۱) صفت [تھم - ستون - (۲) ڈکن - (۳) مینار (۴) لائٹ -

کھماج - (کھ - ماج) صفت [مٹھ] ایک راگنی -

کھمانا - (کھ - مانا) صفت [مٹھ] ٹھکانا -

کھمبا - (کھم - با) صفت [مڈ] دیکھیے کھم -

کھمبی - (کھم - بی) صفت [مٹھ] ایک قسم کی سفید نباتات جو اکثر برسات میں اتر دیا جاتا ہے اور اسے تل کر کھاتے ہیں -

کھمڈ - (ق - نڈ) روزانہ - سوراخ -

کھن - (کھ - نڈ) صفت [کڑی میں سوراخ کرنا - (۲) روپیہ بچنے کی آواز - (۳) کھنڈ کا منگفت - منزل - درجہ - حصہ - (۴) آسان (ق) (۵) معدن - کان - (ق) -

کھن - (ق - ۱) صفت [مٹھ] منزل - (۲) عاجز - معیبت زدہ -

کھنال - (ق - صفت) درجہ درجہ -

کھنچری - (کھنچ - ری) صفت [مٹھ] دیکھیے کھنچری -

کھنچن - (کھن - جن) صفت [مٹھ] ایک سیاہ رنگ کا پرندہ - شاما -

کھنچاؤ - (کھن - چا - او) صفت [مٹھ] دیکھیے کھچاؤ -

کھنچنا - (کھنچ - نا) صفت [مٹھ] دیکھیے کھنچنا -

کھنڈ - (کھ - نڈ) صفت [مٹھ] دیوار کا چھوٹا حلقہ -

کھنڈانا - (کھن - نڈ) صفت [مٹھ] دیوار وغیرہ کی باؤ میں پڑ جانے والا دندانہ - (۲) کڑی یا دیوار کا خفیہ سوراخ -

(۳) [کن ٹیا] رختہ - (۴) گڑھا جہاں سے مٹی کھودی جاتے -

کھنڈل - (کھ - نڈ) صفت [مٹھ] وسیع میدان -

کھنڈلنا - (کھن - ڈن) صفت [مٹھ] پامال کرنا - پاؤں میں ملنا - سنا - کھنڈلنا -

کھنڈر - (کھ - نڈ) صفت [مٹھ] حقتہ - (۲) منزل - درجہ - (۳) خطہ - (۴) دیس - ملک - (۵) کتاب کا حصہ - باب - ادھیاستے - (۶) [مٹھ] کھانڈ -

کھنڈسا - (کھن - نڈ) صفت [مٹھ] کھانڈ بنانے کا کارخانہ -

کھنڈا - (کھن - ٹا) صفت [مٹھ] - (۱) چاولوں کا چوڑا - (۲) کھانڈ کا منگفت - "نوار -

کھنڈا - (کھن - ڈا) صفت [مٹھ] کھنڈ - جو نیز نہ ہو -

کھنڈے اُستری سے سر توڑ کرنا - (۱) مجاورہ (۲) بن دھار کے اُستری سے حجامت کرنا - خوب تکلیف دینا - (۳) خوب صفایا کرنا - ٹوٹنا -

کھنڈانا - (کھن - ٹا) صفت [مٹھ] بھینجا کرنا - پرانگندہ کرنا -

کھنڈت - (کھن - ڈت) صفت [مٹھ] (۱) کھوٹے ہونا - (۲) ابتری پرانگندہ (۳) خل - مزاحمت - دست اندازی - حرج - (۴) تردید - تیسخ -

کھنڈت پڑنا - (۱) مجاورہ (۲) کسی کام میں حرج واقع ہونا - (۳) کسی بات کا سلسلہ نہ رہنا -

کھنڈر - (کھن - ڈر) صفت [مٹھ] ٹوٹا ہوا مکان - ویران مکان - ویرانہ - (۲) ٹوٹے ہوئے مکانوں کے نشان -

کھنڈری - (کھنڈ - ری) صفت [مٹھ] (۱) فقیروں کا لباس جس میں ٹیوند لگے ہوتے ہیں - (۲) ایک قسم کا پٹینہ جس میں مختلف رنگ کے پٹے بنے ہوتے ہیں -

کھنڈلا - (کھنڈ - لا) صفت [مٹھ] قاش - پھانک - قتلہ - ڈکڑا -

کھنڈلا - (کھنڈ - لا) صفت [مٹھ] (۱) ذرا [مٹھ] جھونپڑا - چھوٹا سا گھر - ٹوٹا چھوٹا مکان -

[صفت] وہ لڑکا جس کے آگے کے دوہ کے دانت ٹوٹ گئے ہوں -

کھنڈن - (کھن - ڈن) صفت [مٹھ] (۱) تردید - تیسخ - (۲) بُت شکنی - (۳) ٹکڑے کرنا - تقسیم کرنا -

کھنڈنا - (کھنڈ - نا) صفت [مٹھ] بکھیرنا - پھیلنا - پریشان ہونا - منتشر ہونا - پرانگندہ ہونا -

کھنڈوی - (کھنڈ - وی) صفت [مٹھ] ایک قسم کی مین کی غذا -

کھنڈوی - (کھن - ڈوی) صفت [مٹھ] وزن مساوی میں من -

کھنڈس - (کھ - نڈ) صفت [مٹھ] (۱) نفرت - (۲) دشمنی - (۳) غصہ - (۴) حسد - (۵) رشک -

کھنڈنا - (کھن - سانا) صفت [مٹھ] (۱) حسد کرنا - (۲) دشمنی کرنا - (۳) یقوی چڑھانا - (۴) لٹائی بچھائی کرنا -

کھنڈسی - (کھن - سی) صفت [مٹھ] لڑا کا چوڑا - (۲) خفا - (۳) حسد کرنا -

کھنڈک - (کھ - نڈ) صفت [مٹھ] بچنے کی آواز - جھنکار - کھڑک - روپے کی آواز - (۲) بوڑھا - ضعیف (ق) -

کھنڈکا - (کھن - کا) صفت [مٹھ] جھنکار -

گھٹکار - گھٹکار - (گھن - کار - گھن - گھار) [ہ - ۱ - مٹ] [۱] - بغم - کٹ - (۲) گھٹنے کی آواز - وہ آواز جو بگم کو مٹانے یا گلاصاف کرنے کے واسطے نکالی جائے۔
 گھٹکارنا - گھٹکارنا - (گھن - کار - نا - گھن - کار - نا) [ہ - مٹ] [۲] - (۱) گھٹکارنا - (۲) گھٹنے کی آواز نکالنا - (۳) گھٹنے کے ذریعے سے اشارہ کرنا - (۴) گھٹنے کو نکالنا - گلاصاف کرنا۔
 گھٹکارنا - گھٹکارنا - (گھن - کار - نا) [ہ - مٹ] [۳] - (۱) گھٹکارنا - گھٹکارنا - روپیہ بجانا۔ گھٹکتی ہوئی آواز - (۱) مذ - ولفرب آواز۔
 گھٹکڑی - گھٹکڑی - (گھن - مٹ) [ہ - ۱ - مٹ] [۱] - ایک قسم کا پاؤ - کڑاری چوری - گھٹکنا - (گھ - مٹ) [ہ - مٹ] [۲] - (۱) بچنا - گھرتا - لہجہ بگڑنا - پر گھٹنے وقت روپیہ لا بچنا - (۲) ٹوٹے ہوئے مٹی کے برتن کی آواز۔
 گھٹکھا - (ہ - صفت) [۱] - بہت خشک - (۲) گزور - (۳) بوڑھا۔
 گھٹکھڑ - (گھن - گھڑ) [ہ - صفت] [۱] - خشک - سخت - (۲) مٹھیا ہوا۔
 گھٹکھین - (گھن - گھین) [ہ - ۱ - مٹ] [۲] - ایک طرح کے ناک میں رونے کی آواز۔
 گھٹکھین کرنا - بیاد کی کے باعث پیکے کانگ میں رونا۔
 گھٹکھنا - (گھن - گھنا) [ہ - ۱ - مٹ] [۱] - (۱) مٹی کا برتن جس میں دراڑ پڑ جائے۔
 گھٹکھنا - (گھن - گھنا) [ہ - مٹ] [۲] - (۱) پیکے کانگ میں رونا۔
 گھٹکھنا - (گھن - گھنا) [ہ - مٹ] [۳] - (۱) پانی ڈال کر برتن بلانا اور اسے پینک دینا۔ پانی سے برتن صاف کرنا۔ (۲) سرسری طور پر دیکھنے کو دھونا اور صاف کرنا۔
 گھٹکڑ - گھٹکڑ - (گھن - گڑ - گھن - گڑ) [ہ - ۱ - مٹ] [۱] - بہت ہی جلی ہوئی اینٹوں کا مجموعہ - (۲) دھات کا میل جو پگھلنے کے بعد نکلتے۔ (۳) ایک قسم کا مسالے کا پیتر جس سے چھاپے کا پیتر صاف کیا جاتا ہے۔
 گھٹکڑ لگ جانا - (۱) محاورہ) ڈیریاں بکل جانا - گوشہ نشین اور جسم گل کر صورت ڈیریاں رہ جانا۔
 گھوٹ پھینا - (۱) محاورہ) ضائع کر دینا - (۲) تباہ و برباد کر دینا۔
 گھو جانا - (۱) محاورہ) بڑھوسا ہو جانا - (۲) کم ہونا۔ (۳) سٹ پٹا جانا۔
 گھو کر سبھنا - (۱) محاورہ) نقصان کر کے تجربہ حاصل کرنا۔
 گھو - گھو - [ہ - ۱ - مٹ] [۲] - (۱) غار - بھٹ - گڑھا - پہاڑ کے اندر کا کھوکھلا حصہ۔
 گھوا - (گھ - وا) [ہ - ۱ - مٹ] [۱] - (۱) شانہ - موٹڑھا۔ کنہا۔ دوش - شانہ کی ڈہری۔
 گھو سے گھوا چھلنا - (۱) محاورہ) [۱] نہایت بھیڑ بھار ہونا۔ لوگوں کی کثرت کے باعث کنہ سے کنہ چھلنا۔ شانہ شانہ گرد گھانا۔
 گھوے رہ جانا - (۱) محاورہ) موٹڑھے تنک مانا۔
 گھوڑ - (گھو - بڑ) [ہ - ۱ - مٹ] [۲] - (۱) درخت کی لکڑی کی برآمدگی

گھوٹینا - (ہ - مٹ) [۱] - ضائع کرنا۔ برباد کرنا۔ نگاہ کرنا۔
 گھوڑا - (گھوٹ - را) [ہ - ۱ - مٹ] [۱] - گھوپا - ناریل کا منفر - (۲) کا سہ سر - گھوپری۔
 گھوپری - گھوپری - (گھوٹ - ری - گھوٹ - پری) [ہ - ۱ - مٹ] [۲] - (۱) گھوپری - (۲) گھوپری کا حقہ - سر کی ڈہری۔
 گھوپری پھینا - پھینا - (۱) محاورہ) کا سہ سر کا شق ہونا۔ تالو پھینا۔ شدت کی گرمی کے باعث کا سہ سر کا پھٹ جانا۔
 گھوپری چل پھلانا - (۱) محاورہ) مار کھانے کو جی پھینا۔
 گھوپری کھا جانا - (۱) محاورہ) داغ چٹ کر جانا۔ (۲) ستانا۔ دق کرنا۔
 گھوپری کمرے کے بھیجا کھا جانا۔
 گھوپری لپی کرنا - (۱) محاورہ) اس قدر مارنا کہ سر کے بال اڑ جائیں بہت مارنا۔
 گھوٹ - (ہ - ۱ - مٹ) [۱] - ملاوٹ۔ آمیزش - (۲) [مذکر] نقص - عیب - روش - قباحیت - خطا - تصور - (۳) نقصان - ضرر - (۴) بری برائی - شرارت - بد ذاتی - جملہ مزدگی - (۵) دعا - فریب - کینہ - کپٹ - چمل۔
 گھوٹ کرنا - (۱) محاورہ) برائی کرنا - تصور کرنا۔ (۲) دوسرے کو نقصان یا ضرر پہنچانا۔
 گھوٹ بلانا - (۱) محاورہ) [۱] خالص سونے چاندی میں کوئی اورنی دھات ملانا۔ (۲) نقص کرنا۔ خلی ڈالنا۔ (۳) برائی کرنا۔
 گھوٹ نکالنا - (۱) محاورہ) کسی چیز کا نقص یا عیب نکالنا۔
 گھوٹا - (گھو - ٹا) [ہ - ۱ - مٹ] [۲] - (۱) گھوٹا لقیض - جبلی - غیر خالص - جبلی - (۲) بڑا بڑا۔
 شہیر - عیبی - ناقص - نکم - ناکارہ - (۳) دعا باز - فریبی - بگڑا - (۴) جبر سے ارادے والا - بذیت۔
 گھوٹا بیٹھا - (۱) مذ - کپوت - ناخلف - نالا حق بیٹھا۔
 گھوٹا پین - (۱) صفت) گھوٹا ہونا۔
 گھوٹا پیسا - (۱) مذ - گھسا ہوا پیسا۔ وہ پیسا جو چلنے کے قابل نہ ہو۔
 گھوٹا پیسا (گھوٹا پیسا) بڑے وقت کام آجاتا ہے۔ (۱) شکل - بختی اور خراب پیڑھی وقت پر کام دے جاتی ہے۔
 گھوٹا سکتہ - (۱) مذ - ناقص - سکتہ۔
 گھوٹا سماں - (۱) مذ - بڑا زمانہ - کل جگ۔
 گھوٹا کھرا (پر گھٹا) دیکھنا - (۱) محاورہ) بڑے سطل کی آزمائش کرنا۔ پھینا۔
 گھوٹا کھرا ہونا - (۱) محاورہ) نیت کا ڈالنا اور ڈول ہونا۔ نیت بگڑنا۔ لپچانا۔
 گھوٹا مال - (۱) مذ - ناقص مال۔
 گھوٹی - (گھو - ٹی) [ہ - ۱ - مٹ] [۲] - (۱) گھوٹا مال - نیت - غیر خالص - جبلی - (۲) بد - (۳) ناقص - بختی - (۴) دعا باز - (۵) بگڑا - (۶) فاحشہ - (۷) کینہ - توڑ۔
 گھوٹی بات - (۱) مذ - دھوکے کی بات - (۲) بڑی بات۔
 گھوٹی کرنا - (۱) محاورہ) [۱] گھوٹ بلانا۔ (۲) بڑی کرنا۔
 گھوٹی گھڑی - (۱) مٹ [ہ - ۱] بڑی گھڑی - بڑا وقت - منجوس گھڑی - بڑی ساعت - گھوٹے داموں - کم قیمت پر۔

کھوٹے کھرے کو پرکھنا - (۱- محاورہ) نیک و بد کی جانچ و پڑتال کرنا۔
 کھوج - (۱- مذ) ۱) سرخ - آدمی کے پاؤں کا نشان - (۲) ٹھکانا۔
 پتہ - نشان - (۳) تلاش - جستجو - (۴) خبر - واقفیت - (۵) بے باک۔
 کھوج پانا - (۱- محاورہ) سرخ لگانا - خبر پانا - نشان ملنا - ٹھکانا معلوم کرنا۔
 کھوج ڈھونڈھنا / کھوجنا - (۱- محاورہ) ڈھونڈھنا - تلاش کرنا - پتہ لگانا۔
 کھوج لگانا - (۱- محاورہ) ستیاناس کرنا - (۲) بیخلاف کرنا - (۳) کسی کام کا نہ رکھنا - (۴) نشان ملنا - سرخ لگوانا۔
 کھوج لگانا - (۱- محاورہ) پتہ لگانا - سرخ لگانا - کسی شخص یا کسی چیز کے بڑی تلاش کے بعد نشان معلوم کرنا - تعقیب کرنا۔
 کھوج مٹا - (۱- صفت) خانہ خراب - خانہ ویران - بے نام و نشان - چرما (عورت کے لیے کھوج مٹی)۔
 کھوج مٹانا - (۱- محاورہ) نام و نشان نہ رکھنا - نیست و نابود کرنا۔
 بیخ کنی کرنا - استیصال کرنا۔
 کھوج ہٹ جانا - (مٹنا) [۱- محاورہ] نام و نشان نہ رہنا - معدوم ہو جانا - نیست و نابود ہو جانا۔
 کھوج ملنا - (۱- محاورہ) سرخ ملنا - پتہ لگانا - خبر معلوم ہونا۔
 کھوج نکالنا - (۱- محاورہ) دیکھنے کھوج لگانا۔
 کھوج ہاتھ آتا - (۱- محاورہ) پتا لگنا - سرخ ملنا۔
 کھوجانا - (کھو - جانا) [۱- محاورہ] گم ہو جانا - غائب ہو جانا۔
 کھوجڑ - (کھو - جڑ) [۱- مذ] آجڑ - چوک۔
 کھوجڑا - (کھوج - جڑا) [۱- مذ] ۱) کھوج - سرخ - (۲) نام و نشان - بیخ و بنیاد۔
 کھوجڑا جانا - (۱- محاورہ) ستیاناس جانا - آجڑ جانا - غارت ہونا - نام و نشان تک نہ رہنا - نیست و نابود ہونا۔
 کھوجڑا جانے - (دُعا کے بد) غارت ہو - برباد - ستیاناس ہو - نام و نشان تک نہ رہے۔
 کھوجڑے پٹیا - (بددعا) خاد خواب - گھوٹا۔
 کھوجٹا - (۱- محاورہ) تلاش کرنا - دریافت کرنا۔
 کھوجی - کھوجیا - (کھو - جی) - کھوج (یا) [۱- مذ] سرخ لگانے والا۔
 سرخ رسال - کھوج لگانے والا - جو تندرہ۔
 کھوجڑ - (کھو - جڑ) [۱- مذ] ہوتے ہوئے کام کو روک دینے والا۔
 رخنہ انداز - چلتی گاڑی میں روڑا ٹکانے والا - فسادی۔
 کھود - (۱- مٹ) ۱) کھودنے کا فعل - (۲) کھوج - گھونپ - جو تک۔
 کھود کر پھینا - (۱- محاورہ) کھود کھود کر پھینا - خوب چھان بین کرنا۔
 طرح طرح سے پھینا - نہایت تعقیب کرنا۔
 کھود ڈالنا - (۱- محاورہ) زمین اکھاڑنا - (۲) کھینچنا - کر دینا - (۳) کندہ کرنا۔
 نسبت کاری کرنا - (۴) جڑے نکالنا - (۵) خالی کرنا - (۶) تلاش کرنا۔

کھوٹا - (کھوٹ - نا) [۱- محاورہ] ۱) گڑھا کرنا - (۲) جڑے اکھاڑنا - (۳) خالی کرنا۔
 کھینچنا - کر دینا - (۴) نقاشی کرنا - کندہ کرنا۔
 کھوٹنی - (ق - ۱- مٹ) ۱) جستجو - تلاش - دریافت - سرخ - (۲) کھوٹنی - (ق - ۱- مٹ) ۱) زبرد کاشت زمین۔
 کھوٹینا - (۱- محاورہ) ۱) صلح کر دینا - برباد کر دینا - (۲) ٹکنا کر دینا - (۳) غائب کر دینا - گم کر دینا - گنوا دینا۔
 کھور - (۱- مٹ) ۱) مویشیوں کے گنی کھانے اور پانی پینے کی ناند پانی۔
 (۲) خار - کھوہ - چھوٹی وادی - (۳) راستہ - گلی - (۴) پھینے - ڈھکنے پر پڑنا۔
 (۵) بھارت - رضائی۔
 کھورو - (کھو - رو) [۱- مذ] ۱) کھوردار جانوروں کی وہ حالت جس میں وہ زمین کو اپنے کھروں یا سوں سے کھود کر کسی خواہش کا اظہار کرتے ہیں۔ (۲) بڑی خسارہ - شہارت - جھڈا - تنازع - (۳) شہابی عیب (ق)۔
 کھور دلانا - (۱- محاورہ) ۱) حیوانوں کا زمین پر کھر یا سخم دے دے مارنا۔
 (۲) شور مچانا - (۳) جھگڑا کرنا - شرارت کرنا - فساد کرنا۔
 کھوڑ - (۱- مٹ) ۱) دیکھنے کھوڑا - (۲) مرے ہوئے بزرگوں کی ناراضی۔
 (۳) آسیب - بغل۔
 کھوڑ - (۱- مٹ) وہ تک جو ہندو لوگ مندر یا سیندر وغیرہ کا لگاتے ہیں۔
 کھوڑا - (ق - ۱- مٹ) ہتھکڑی - (۲) گڑھی جو مویشی کے گلے میں باندھے ہیں۔
 کھوڑ کا - (ق - ۱- مذ] سوکھا درخت۔
 کھوڑل - (ق - صفت) [۱- ناقص - عیب دار۔
 کھوسا - (کھو - سا) [۱- صفت] وہ شخص جس کے ڈاڑھی اور مونچھ نہ ہو۔
 (۲) [پن] کھودا - ایک قوم۔
 کھوسٹ - (کھو - سٹ) [۱- صفت] ۱) بڑھا چھوس - پیر فرزت - نہایت بد - بہن سال۔
 کھوسرا (کھوسرا) [۱- مذ] پڑائی اور ٹوٹی ہوئی جوتی۔
 کھوسنا - (کھو - سنا) [۱- محاورہ] کسی چیز کو کسی چیز میں اڑس دینا - اٹکا دینا - اٹھانا - (۲) بال نوچنا۔
 کھو کر سیکھنا - [۱- محاورہ] نقصان اٹھا کر تجربہ حاصل کرنا۔
 کھوکھا - (کھو - کھا) [۱- مذ] ۱) وہ ہنڈی جس کے روپے دیئے جا چکے ہوں - (۲) لڑکا - طفل - [صفت] خالی - تہی - مٹوٹھا - (۳) گڑھی کا بڑا صندوق۔
 کھوکھلا - (کھو - کھلا) [۱- صفت] ۱) پولا - خالی - کھٹل - بے مغز - مٹوٹھا۔
 کھوکھیا نا - (۱- محاورہ) دیکھنے خورجیا نا۔
 کھولا - (ق - ۱- مذ] ۱) چھوٹی - (۲) صندوق۔
 کھولا ماتجا - (کھولا - ماں - جا) [۱- ق - ۱- مذ] خار پست - سپہ۔
 کھولانا - (کھو - لا) [۱- محاورہ] ۱) جوش دینا - ابلانا - (۲) جلانا - غر دینا۔
 کھول کر - (۱- تابع فعل) ۱) ظاہر کر کے - تابع طور سے - (۲) بے روک ٹوک۔

آزادانہ - (۳) بخرنی - بیسا چاہیے۔
 کھول کر کہنا - (۱) عمارہ کسی بات کو خوب ظاہر کر کے اور علانیہ کہنا۔ بے لگ
 کہنا۔ صاف کہنا۔
 کھول کیسہ کھا ہر لیبہ - (۱) شل، گرہ کا زرخیز کر اور دنیا کا مزہ اٹھا۔
 کھولن - (کھولن) [۱ - مٹ] (۱) جوش - اہال - (۲) جلن - سوزش -
 (۳) زخم - ٹیس۔
 کھولنا - (کھولنا) [۱ - مٹ] (۱) اُلٹنا - پکنا۔ جوش کھانا۔ نہایت گرم
 ہونا۔ (۲) دل ہی دل میں غم کھانا۔ (۳) زخم یا پھوڑے میں
 جلن یا ٹیس ہونا۔
 کھولنا - (کھولنا) [۱ - مٹ] (۱) کسی بندھی چیز کا وا کرنا۔ (۲) ظاہر
 کرنا۔ (۳) بھانڈا پھوڑنا۔ (۴) بھاڑنا۔ چیننا۔ (۵) اُدھیرنا۔ (۶)
 با کرنا۔ آزاد کرنا۔ (۷) تنگ کرنا۔ عریاں کرنا۔ (۸) سلجھانا۔ صل کرنا۔
 (۹) صاف کرنا۔ (۱۰) حجاب دور کرنا۔ خاموشی دور کرنا۔ ہم باز
 بنانا۔ (۱۱) گھٹیا بادل کا دور کرنا۔ بارش روکنا۔ (۱۲) پھڑکا
 کرنا۔ (۱۳) قید و بند سے آزاد کرنا۔ (۱۴) کسی بندھے ہوئے جانور
 کی چوری کرنا۔ (۱۵) ہتھیار کر کے جدا کرنا۔ (۱۶) نفل کو زنجیر
 سے دور کرنا۔
 کھونا - (کھونا) [۱ - مٹ] (۱) گم کرنا۔ گنونا۔ (۲) جھلانا۔ لبرنا۔
 (۳) ضائع کرنا۔ برباد کرنا۔ (۴) بے قابو کرنا۔ (۵) بگاڑنا۔ (۶)
 رنج کرنا۔
 کھوٹپ - (کھوٹپ) [۱ - مٹ] (۱) ایک قسم کی لمبی لمبی سیلاقی۔ جسے لپٹاٹیکے
 کھوٹپ کرنا۔ (۱) عمارہ) موٹا موٹا سینا بنگیا یا - شینگے مارنا۔ (تھاڑا)
 سینا۔
 کھوٹپ - (کھوٹپ) [۱ - مٹ] (۱) کوئہ گوشہ - زاویہ - (۲) جانب - طرف -
 سمت - پہلو - (۳) کان کا میل - (۴) ملک کا حصہ - قطعہ -
 کھوٹا - (کھوٹا) [۱ - مٹ] (۱) بیخ - کیل - چوب - (۲) کولھوکی
 لاٹھ - (۳) پھلی کا ہتھا۔
 کھوٹا سا - (۱) میخ کی مانند سیدھا اور مضبوط گڑا ہوا۔
 کھوٹا ٹنگڑا ہونا - (۱) عمارہ) چختہ سہارا ہونا۔ بڑا آدھی مددگار ہونا۔
 کھوٹا سا بیٹھ جانا (گڑ جانا) [۱ - عمارہ) مضبوطی کے ساتھ قائم ہو جانا۔
 کھوٹے کی طرح جم جانا۔
 کھوٹے پر مارنا - (۱) عمارہ) خاطر میں لانا۔ جوڑنے کی نوک پر مارنا۔
 پروانہ کرنا۔
 کھوٹے سے بندھنا - (۱) عمارہ) (۱) میخ سے بندھنا۔ (۲) پابند ہونا۔
 (۳) نکاح یا شادی ہونا۔
 کھوٹے کے بل کوٹنا - (۱) عمارہ) کسی کی حمایت پر اترنا۔ کسی کے
 بھروسے پر گھنڈا کرنا۔
 کھوٹی - (کھوٹی) [۱ - مٹ] (۱) چھوٹی میخ - کیل - (۲) سازگی
 یا ستار کے کان - (۳) بالوں کی جڑ۔

کھوٹی لینا - (۱) عمارہ) چھوٹے چھوٹے بال مونڈنا۔
 کھوٹی مروڑنا - (۱) عمارہ) گوشائی کرنا۔ مزوینا۔ کان اینٹھنا۔
 کھوٹی نہ پھوڑنا - (۱) عمارہ) (۱) بہت صفائی سے حجامت بنانا۔ (۲) ٹوٹ
 کر بالکل صفیا کر دینا۔
 کھونج - (کھونج) [۱ - مٹ] (۱) پھڑے وغیرہ کی وہ جگہ جو کیل یا کانٹے سے اُلجھ کر
 پھٹ جائے۔ (۲) چادر پانی کی کان۔ (۳) جسم کا وہ حصہ جو کسی صدمہ
 سے پھٹ جائے۔
 کھونج آنا - کھونج لگنا - (۱) عمارہ) کپڑے لاکسی چیز سے اُلجھ کر پھٹ
 جانا۔
 کھونچا - (کھونچا) [۱ - مٹ] (۱) بڑی کھونج۔
 کھونچا - (کھونچا) [۱ - مٹ] (۱) سارھے چھ کا پہاڑہ۔
 کھونچڑ - (کھونچڑ) [۱ - مٹ] (۱) دیکھیے کھونچڑ۔
 کھونڈنا - (کھونڈنا) [۱ - مٹ] (۱) پامال کرنا۔ روندنا۔ پاؤں سے ملنا یا کپٹنا۔
 کھونڈا - (کھونڈا) [۱ - مٹ] (۱) وہ لڑکا جس کے آگے کے دودھ دانت
 ٹوٹے ہوئے ہوں۔ کھنڈلا۔ (مؤنٹ کے لیے کھونڈی)
 کھونڈا - (کھونڈا) [۱ - مٹ] (۱) پڑنی اور ٹوٹی ہوئی جڑنی۔
 کھول کھول - (کھول) [۱ - مٹ] (۱) کھانسی کی آواز۔
 کھول کھول کرنا - (۱) عمارہ) کھانسا۔ دھانسا۔
 کھوہ - (کھوہ) [۱ - مٹ] (۱) پہاڑ کی غار۔ گھیا۔
 کھوٹی - (کھوٹی) [۱ - مٹ] (۱) گتے یا ایکھ کی بھوک جو رس نکالنے کے
 بعد رہ جاتا ہے۔
 کھوٹے سے گئے - [۱ - مٹ] (۱) پٹا گئے۔ گھبر گئے۔ حواس باختہ اور متیز
 ہو گئے۔ اوسان جاتے رہے۔
 کھویا - (کھویا) [۱ - مٹ] (۱) بہت کھانے والا۔ پیٹو۔
 کھویا - (کھویا) [۱ - مٹ] (۱) ناؤ چلانے والا۔ تاج۔ مانجھی۔
 کھویا - (کھویا) [۱ - مٹ] (۱) دودھ کا دادا۔ ربڑی۔
 کھویا (کھوٹے) جانا - (۱) مٹ] (۱) گم ہو جانا۔ جانا رہنا۔ (۲) گھبرانا۔
 بدحواس ہو جانا۔ حیران ہو جانا۔ (۳) لاجواب ہو جانا۔
 کھویا کھویا رہنا - (۱) عمارہ) کسی خیال میں غور رہنا طبیعت کا بند
 رہنا۔ انقباض رہنا۔
 کھے - (کھے) [۱ - مٹ] (۱) میلا۔ گوہ۔ سجاست - (۲) خاک دھول۔ راکھ۔
 کوڑا کرکٹ۔ گندگی۔
 کھے کھانا - (۱) عمارہ) (۱) جھک مارنا۔ بے ہودہ بکنا۔ (۲) [۱ - مٹ] (۱) بڑا
 کام کرنا۔
 کھیارا - (کھی) [۱ - مٹ] (۱) زق - صفت [۱ - مٹ] (۱) عیار۔ بے مروت۔
 کھیاری - (کھی) [۱ - مٹ] (۱) بے مروت عورت۔ عیارن۔
 کھیانا - (کھی) [۱ - مٹ] (۱) مٹ] (۱) کھسکانا۔ سرکانا۔ (۲) گھس جانا۔
 پلانا ہو جانا۔
 کھیپ - (کھیپ) [۱ - مٹ] (۱) دریا بی سفر۔ (۲) بھرتی۔ بوجھ۔ (۳) دفعہ

کھیلنا - (کھیل - نام) ۱۔ صحت یا مستحی میلیت
 کھیل - (۱۔ مذ) ۱۵ بازی، بازیچہ، تماشا - کرتب - (۲) دل بہلاوا - پیر -
 مشغلہ - شغل - (۳) کارگری - (۴) کام - کاج - فعل - دھندا -
 (۵) چھوڑنا چشمہ جس میں مویشیوں کو پانی پلاتے ہیں - (۶) [صفت] سہل - آسان -
 کھیل بگاڑنا - (۱۔ محاورہ) بنا بنا یا کام خراب کرنا - رخنہ ڈالنا -
 کھیل بگڑ جانا - (۱۔ محاورہ) بنے ہوئے کام کا بگڑ جانا - کام میں رخنہ پڑنا -
 کھیل بنانا - (۱۔ محاورہ) کام بنانا - بار بار لگانا - بات بنانا -
 کھیل جانا - (۱۔ محاورہ) ۱۵ گزار دینا - کھانا دینا - جو کھوں یا بلاکت میں
 ڈال دینا - (۲) مرجانا - ہلاک ہو جانا - جان سے جانا رہنا -
 کھیل جانا سمجھنا - (۱۔ محاورہ) آسان جانا - بہت ہی سہل جانا -
 سچ سمجھنا -
 کھیل کرنا - (۱۔ محاورہ) ۱۵ مذاق میں ڈالنا - کسی کام کو کام کی طرح نہ کرنا -
 (۲) کھیلنا -
 کھیل کود - (۱۔ مذ) اہو و لعب - اچھل کود -
 کھیل کود کے گزارنا - (۱۔ محاورہ) کھیل کود میں وقت کا لٹنا -
 کھیل کھانا - (۱۔ محاورہ) بد چینی اور آوارگی میں زندگی گزارنا -
 کھیل کھلانا - (۱۔ محاورہ) ۱۵ بازی کرنا - (۲) ستانا - وق کرنا -
 کھیل کے دن - (۱۔ مذ) لڑکپن کا زمانہ -
 کھیل بنیہ - (۱۔ محاورہ) آسان نہیں ہے - دشوار ہے -
 کھیل ہاتھ لگانا - (۱۔ محاورہ) دل کا بہلاوا ہاتھ لگانا - شغل ہاتھ لگانا -
 کھیل ہے - (۱۔ محاورہ) ۱۵ ایک ادنیٰ بات ہے - (۲) تماشا ہے -
 شغل ہے - (۳) سہل ہے - آسان ہے -
 کھیل - (۱۔ صفت) ۱۵ بچنے ہوتے چاول یا اناج، جو پھول گیا ہو -
 (۲) ذرا سا قلیل مقدار - (۳) ٹھنڈا ہوا شہاگہ یا دھات جو
 پھول جاتے -
 کھیل اڑ کر مرنے میں نہ جانا - (نہ پڑنا) - (۱۔ محاورہ) کوئی چیز نہ کھانا
 بالکل نہ کھانا -
 کھیل بتا شول کا میل ہے - (۱۔ مثل) نہایت موزوں ہیں -
 خوب جوڑی ملی ہے -
 کھیل کھیل ہو جانا - (۱۔ محاورہ) ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا یا پیرہ پیرہ ہو
 جانا - تختہ ہو جانا - پارہ پارہ ہو جانا -
 کھیل ہونا - (۱۔ محاورہ) بھین کر کھیل کی مانند ہو جانا -
 کھیلےں - (۱۔ صفت) ۱۵ بچنے ہوئے دھان جو خشک ہوتے ہو جاتے ہیں -
 (۲) ہر وہ چیز جو بھین کر خشک ہوجائے -
 کھیل کھلایا - (صفت) تجزیہ کار - آزمودہ کار -
 کھیلنا - (کھیل - نام) ۱۔ صفت [۱۵] بازی کرنا - کھیل کرنا - (۲) اچھلنا - کودنا -
 (۳) اہو و لعب کرنا - (۴) کام کرنا - کوئی فعل کرنا - (۵) دل بہلانا -
 (۶) گزارنا - بیٹنا - (۷) جو کھیلنا - تمار بازی کرنا - (۸) جھوٹ پڑت

یا جن پری کے اثر سے ہر ملانا -
 کھیلنا کھانا - (۱۔ محاورہ) زندگی کا لطف اٹھانا -
 کھیلنا - (کھے - نا) ۱۔ صفت [۱۵] ناؤ چلانا - پھوڑے کشتی چلانا - (۲) برداشت
 کرنا - سہنا - (۳) جلانا - آگ پر رکھنا - دھونی دینا - (۴) ضرورت پر
 کسی کے کام آنا -
 کھینچ - (۱۔ صفت) ۱۵ کشش - کھینچاؤ - (۲) کمی - قلت - قحط - کال -
 کھینچ ہونا - (۱۔ محاورہ) زبردستی ہونا -
 کھینچ مٹان کے - (۱۔ تابع فعل) کوشش سے - زبردستی - گھسیٹ گھٹ
 کر - بدقت - بمشکل -
 کھینچ کرنا - (۱۔ محاورہ) کمی کرنا - رکاوٹ کرنا -
 کھینچ لانا - (۱۔ محاورہ) پھڑلانا - گھسیٹ لانا -
 کھینچنا تانی - (کھین - چا - تا - نی) [۱۔ صفت] کشش - لڑائی جھگڑا -
 کھینچنا - (کھینچ - نا) [۱۔ صفت] [۱۵] کھیلنا - تاننا - اچھنا - (۲) جذب کرنا -
 چڑھنا - (۳) غور کرنا - اکرنا - (۴) جلد جلد لکھنا - (۵) تصویر بنانا -
 عکس آنا کرنا - (۶) میدان سے تلوار باہر نکالنا - (۷) باہر لانا - نکالنا -
 (۸) کرنا - (۹) لگانا - چڑھانا - (۱۰) روکنا - سہنا - (۱۱) بھرنا - لبا یا ٹھنڈا
 سانس لینا - (۱۲) حلقہ بنانا - گھیرنا - اساطیر کرنا - سرکل بنانا - (۱۳)
 کاڑھنا نقش بنانا - (۱۴) اوپر لانا - اوپر چڑھانا - (۱۵) چلانا - پانڈھنا
 کھیوا - (کھے - وا) [۱۔ صفت] [۱۵] ناؤ کا تار - (۲) کشتی - ناؤ - (۳) دریا کے
 پار اترنا - (۴) کشتی میں بیٹھنے والوں کا گروہ -
 کھیوا پار کرنا - (لگانا) - (۱۔ محاورہ) ۱۵ کشتی کو کنارے پہنچانا - میرا پار لگانا
 (۲) عاقبت پھیر کرنا - نجات دینا -
 کھیوٹ - (کھے - وٹ) [۱۔ صفت] [۱۵] وہ سرکاری ریسرٹ جس میں گول
 کی کیفیت مندرج ہوتی ہے - کاغذات بند و برت - (۲) خراج
 کی قسط - (۳) قلع -
 کھیوٹ دار - (۱۔ صفت) گاؤں کا شریک - شریک حصہ -
 کھیوٹ کھنونی - (۱۔ صفت) [۱۵] گاؤں کے بندوبست کا حساب کتاب -
 (۲) مالکان اراضی اور ان کی زمینوں کا حساب کتاب -
 کھیوٹیا - کھیوٹیا ہار - کھیوٹیا - (کھے - وٹ - یا - کھے - ون - ہار - کھے
 وکی - یا) [۱۔ صفت] [۱۵] کھوٹیا - کشتی بان - قلع - مانجھی -
 کھیوٹی - (کھے - ای) [۱۔ صفت] [۱۵] سوکھی ہوئی جھاڑی یا جھڑی کے
 وہ درخت جو ہار لگانے اور جلانے کے کام آتے ہیں -

ک - ۶

کئی - (ک - ای) [۱۔ صفت] چند - کتنے ہی - دوچار -
 کئی ایک - (۱۔ صفت) چند - چند ایک - دوچار -
 کئی بار - (۱۔ تابع فعل) چند مرتبہ - چند بار - اکثر - بار بار - کتنی دفعہ -

کھیلا کھلایا - (صفت) تجزیہ کار - آزمودہ کار -
 کھیلنا - (کھیل - نام) ۱۔ صفت [۱۵] بازی کرنا - کھیل کرنا - (۲) اچھلنا - کودنا -
 (۳) اہو و لعب کرنا - (۴) کام کرنا - کوئی فعل کرنا - (۵) دل بہلانا -
 (۶) گزارنا - بیٹنا - (۷) جو کھیلنا - تمار بازی کرنا - (۸) جھوٹ پڑت

کئی ہاتھ - (۱) تابع فعل (چند ہاتھ - بہت سا۔

ک۔ی

کی - (۱) حرف اضافت (کا کی تائینث -

کی خاطر (۱) تابع فعل کے لیے -

کے - (۱) حرف جار (۱) کا کی جمع - الفاظ جمع سے پہلے "کا" کی جگہ مستقل ہونا ہے - (۲) دونوں کے درمیان اظہار عطف کے لیے جیسے پڑھ کے آیا -

کے - (۱) استفہام عددی (کتنے؟

کے بار - (۱) تابع فعل (کتنی دفعہ -

کے - (۱) حرف جار (۱) رٹا بادشاہ (۲) خاندان کی نیاں کا بادشاہ (حرف

استفہام اکب -

کے آمدی دوسرے پیر شدی - (۱) مثل (مثل) تھوڑے پتھر لے پر اترانے دے کو کہتے ہیں کہ ابھی کچھ کرو تو سہی، اتنی جلدی کہاں سے سب سے کار ہو گئے -

کیا - (۱) استفہام (۱) چہ (۲) آیا - (۳) خواہ - (۴) پہلے - (۵) کس قدر

کتنی - (۱) استفہام انکاری - (۲) کون - (۳) کلام - (۴) اظہار عظمت کے لیے - (۵) برائے نفی - (۶) برائے تعین و افرین - (۷) کراہت و نفرت کے واسطے - (۸) کونسی بڑی بات ہے - (۹) کیوں - (۱۰) کس لیے - (۱۱) کس واسطے - (۱۲) حیرت و تعجب - (۱۳) برائے کثرت -

کیا آدمی ہے - (۱) محاورہ (خوب آدمی ہے - (۲) [ظفر] [بڑا اثری آدمی ہے -

کیا آسمان کے تارے ہیں - (۱) مثل (ایسی نایاب چیز تو نہیں کہ

کیا آگ لگاؤں؟ (۱) محاورہ (کیا کروں - نہایت بیزاری اور اکراہ

کے موقع پر بولتے ہیں

کیا آگ لینے آئے تھے؟ (۱) محاورہ (فورا آکر چلے جانے والے کی نسبت

ظنزا بولتے ہیں -

کیا آنکھوں میں خاک ڈالتے ہو - (۱) محاورہ (کیا صریح دھوکا دیتے ہو -

کیا آئے کیا چلے - (۱) محاورہ (جب کوئی آتے ہی جانے کا ارادہ کرنا

ہے تو اس وقت بولتے ہیں کہ یہ آمانہ آنا تو برابر ہے -

کیا اجارہ ہے - (۱) محاورہ (قابو نہیں - دعوے نہیں -

کیا ادھار کی ماں مری ہے - (۱) محاورہ (کیا لین دین کا دستور دنیا

سے ٹوٹ گیا ہے - (۲) نونہ دو گے تمہارا دو سرا جانی موجود ہے - جب

کوئی قرض دینے میں حجت کرے تو کہتے ہیں -

کیا اصل ہے - (۱) محاورہ (کیا حقیقت ہے -

کیا اٹھاڑ سکتا ہے - (۱) محاورہ (کچھ نقصان یا سز نہیں پہنچا سکتا -

کیا اُن ہی کے سر ٹیکا دسہرا ہے - (۱) محاورہ (یہ کام اُن ہی پر موقوف و متعمر نہیں اور لوگ بھی کر سکتے ہیں -

کیا ایسے لعل گئے ہیں - (۱) محاورہ (کون سی خوبی ہے -

کیا بات ہے - (۱) محاورہ (کیا کہنا ہے - کیا خوب! سبحان اللہ! شاباش

مرجبا! واہ! وا! (ظنزا بھی کہا جاتا ہے -)

کیا بات رہی - (۱) مقولہ (کیا عورت رہی -

کیا بڑا تھا - (۱) محاورہ (بہت اچھا تھا - بہت غنیمت تھا -

کیا برائی ہے - (۱) محاورہ (کچھ عجیب نہیں -

کیا بڑا کام ہے - (۱) محاورہ (کچھ نہیں - آسان کام ہے -

کیا بڑی عمر ہے - (۱) محاورہ (جب کوئی شخص اپنی یا اپنا ذکر ہوتے

وقت آجاتے تو اسے یہ فقرہ سناتے ہیں - اور خیال کرتے ہیں

کہ ایسے شخص کی عمر بڑی ہوتی ہے -

کیا بسا طے ہے - (۱) محاورہ (کوئی قیمت نہیں - کچھ حقیقت نہیں -

کیا بکتا ہے - (۱) محاورہ (خط لکتا ہے - بے ہودہ کہتا ہے -

کیا بگڑتا ہے - (۱) محاورہ (کیا نقصان ہوتا ہے -

کیا بلا - (۱) صفت (عضب کا - قیامت کا -

کیا بلا ہے - (۱) محاورہ (کوئی چیز نہیں - کچھ نہیں - بیچ ہے

کیا بلی نے چھینک دیا ہے - (۱) محاورہ (تم نے کیوں اس کام کو نہیں کیا -

کیا بورے لڈو ہیں - (۱) محاورہ (کوئی نایاب چیز نہیں -

کیا بھاڑ میں جھونکیں - (۱) محاورہ (بیکار ہے - فصول ہے -

کیا بھروسہ ہے - (۱) محاورہ (کیا اعتبار ہے - کچھ ٹھکانا نہیں - اطمینان کے

قابل نہیں -

کیا پاؤ گے - (۱) محاورہ (کچھ نہیں ملے گا کچھ حاصل نہ ہوگا -

کیا پاؤں میں ہند کی لگی ہے - (۱) محاورہ (کونسی بات یہاں آنے میں

مانع ہے - جب کوئی شخص تکبر کے باعث آنے جانے میں چھوڑ کر

تو اس موقع پر بولتے ہیں -

کیا پدمی کیا پدمی کا شور با - (۱) مثل (نہایت بے قدر اور حقیر چیز کی

نسبت بولتے ہیں -

کیا پروا ہے - (۱) محاورہ (کچھ مضائقہ ہے - کیا بات ہے!

کیا پڑی ہے - (۱) محاورہ (کیا فکر ہے -؟

کیا پوچھنا ہے -! کیا کہنا ہے! کیا بات ہے!

کیا پھولا پھرتا ہے - (۱) محاورہ (کیوں اس قدر غافل ہے - کیوں اس

قدر ضرور ہے -

کیا تعلق ہے - (۱) محاورہ (کوئی تعلق نہیں - کیوں - کس وجہ سے -

کیا تماشا ہے - (۱) محاورہ (حیرت کے قابل بات ہے - اٹھی بات ہے!

کیا تمہارے شرخاب کا پر لگا ہے -؟ تم میں کونسی خوبی ہے؟ کیا تہی

سب سے بڑھ کر ہو -

کیا تھا کیا ہوا - کیا تھا کیا ہو گیا - (۱) محاورہ (۱) بنا ہوا کام یا بنی ہوئی

بات بگڑ گئی - (۲) زمانہ درگزر اور الٹ پٹٹ ہو گیا -

کیا ٹوٹا کرنے آئی تھیں۔ ۹ (۱- محاورہ) جب کوئی عورت اگر جلد چلی جائے یا تھوڑی دیر کے لیے آئے تو طنزاً یہ محاورہ بولا جاتا ہے۔

کیا ٹھکانہ۔ (۱- محاورہ) کوئی حد نہیں۔ کوئی انتہا نہیں۔

کیا جاتا۔ (۱- محاورہ) کون سا نقصان ہو جاتا۔ کون سا کام بگڑ جاتا۔ کیا بگڑتا۔

کیا جاتی دنیا دیکھی ہے۔ ۹ (۱- محاورہ) جب کسی بے رحم اور بے مروت سے کوئی رحم یا مروت کا کام ہو جائے یا کسی خیل سے سخاوت ظہور میں آئے تو اس وقت کہتے ہیں۔ کیا سبب ہوا جو تم نے دنیا کو فانی سمجھ کر خلافت عادت بات کر دی ہے۔

کیا جان پائی ہے۔ کیا جان ہے۔ (۱- محاورہ) کیا تاب و طاقت اور کیا مجال ہے۔

کیا جانے۔ کیا جانیے۔ (۱- محاورہ) خدا جانے۔ ہمیں خبر نہیں۔ لاعلمی ظاہر کرنے کو بولتے ہیں۔

کیا جائے گا۔ ۹ (۱- محاورہ) کیا نقصان ہوگا؟

کیا جوڑ۔ (۱- محاورہ) کیا مقابلہ۔

کیا چاہیے۔ (۱- محاورہ) کیا ضرورت ہے۔ کس چیز کی حاجت ہے۔

کیا مانگتے ہو۔ (۲) کیا بات ہے۔ کیا کہنا ہے۔ کیا پوچھنا ہے۔

کیا چلائی۔ (۱- محاورہ) کیا بات ہے۔ کیا کہنا ہے۔

کیا چلے۔ (۱- محاورہ) کچھ تو اور اختیار نہیں۔ عالم جمہوری دنیا چاری ہے۔ کیا چوڑیاں ٹوٹ جائیں گی۔ (۱- محاورہ) جب کوئی شخص کسی کام کے کرنے میں سعی کرے تو طنزاً یہ کلمہ زبان پر لاتے ہیں۔

کیا چھاتی ہے۔ (۱- محاورہ) کیا سہل ہے۔ بڑا سہل ہے۔

کیا چیز ہے۔ (۱- محاورہ) کیا حقیقت ہے۔ کم قدر اور حقیر چیز کی نسبت بولتے ہیں۔

کیا حقیقت ہے۔ ۹ (۱- محاورہ) کچھ حقیقت نہیں۔ ذلیل ہے۔

بیچ ہے۔

کیا خاک رہا۔ (۱- محاورہ) کچھ نہیں رہا۔ کچھ نہیں بچا۔

کیا خاک ہے۔ (۱- محاورہ) دیکھیے کیا چیز ہے۔

کیا خبر۔ (۱- محاورہ) خدا جانے۔ کیا معلوم۔ کچھ خبر نہیں۔

کیا خدائی ہے۔ (۱- محاورہ) خدا تعالیٰ کی کیسی قدرت اور کیسی شان ہے؛ خدا کی قدرت ہے۔

کیا خوب۔ ۱- (۱- تابع فعل) (۱) (کلمہ طنز و تعریف) واہ۔ کیا کہنا ہے۔ سیمان اللہ۔ (۲) ہوش کی کو عقل سے بات کرو۔

کیا خوب آدمی تھا۔ (۱- محاورہ) کسی نیک آدمی کے مر جانے کے بعد جب اس کا ذکر کیا جاتا ہے تو یہ کلمہ اسوس کے ساتھ زبان پر لاتے ہیں۔

کیا خوب آدمی ہے۔ (۱- محاورہ) نہایت اچھا آدمی ہے۔ قابل تعریف ہے۔ بھلا مانس ہے۔

کیا خوب سمجھتے ہیں۔ (۱- محاورہ) آپ کچھ بھی نہیں سمجھتے۔

کیا خوشگالی ہے۔ (۱- محاورہ) کیسی عادت امتیاز کی ہے۔ کیا بُری

عادت ڈالی ہے۔

کیا وال بجات کا نوا رہے؟ (۱- مثل) کچھ آسان بات نہیں۔

کیا دخل ہے۔ (۱- محاورہ) ممکن نہیں۔ کیا ممکن۔

کیا درجہ کر رکھا ہے۔ (۱- محاورہ) کیا حال کر رکھا ہے۔ کیا درگت بنا رہی ہے۔

کیا درزی کا کوچ کیا مقام۔ (۱- مثل) اکیلے آدمی کو سفر و حضر میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ منگس کو سفر کا زور نہیں کرنا پڑتا۔

کیا دم (زندگی) کا بھر دوسہ ہے۔ (۱- محاورہ) زندگی کا کچھ اٹنا نہیں۔

کیا دم ہے۔ (۱- محاورہ) اچھی طاقت ہے۔ بہت دم ہے۔

کیا دل تھے۔ (۱- محاورہ) ایام گذشتہ کیسے اچھے تھے جو اب یاد آتے ہیں۔

کیا دُور ہے۔ (۱- مثل) کچھ تعجب نہیں۔ کچھ بعید نہیں۔

کیا دھوپ میں بال سفید کیے ہیں؟ (۱- مثل) بوڑھے اور عمر رسیدہ ہونے پر بھی کوئی تجربہ نہ ہوا۔

کیا ڈر ہے۔ (۱- محاورہ) کچھ مضائقہ نہیں۔ کیا اندیشہ ہے۔ کوئی نقصان نہیں۔

کیا ذکر ہے۔ (۱- محاورہ) قطعاً انکار کرنے کے موقع پر بولتے ہیں کسی چیز کا وجود کیا، اس کا تو ذکر تک نہیں۔

کیا رکھا ہے۔ (۱- محاورہ) (۱) کچھ باقی نہیں۔ (۲) کیا خصوصیت ہے۔

کیا انوکھا پان ہے۔

کیا رنگ ہے۔ (۱- محاورہ) کیسی حالت ہے۔ کیا حال ہے۔

کیا رہا۔ (۱- محاورہ) (۱) کوئی امید نہیں رہی۔ (۲) کچھ باقی نہیں رہا۔

اُس ٹوٹ گئی۔ توقع اٹھ گئی۔ وقت نزع قریب آ پہنچا ہے۔

کیا زمانہ ہے۔ (۱- محاورہ) کیسا بڑا وقت ہے۔ کیا انقلاب ہے۔

کیا سانپ سونگھ گیا ہے۔ (۱- محاورہ) کیوں نہیں بولتے۔

کیا سانپ کا پاؤں دیکھا ہے۔ (۱- محاورہ) جب کوئی ناممکن بات ہو تو کہتے ہیں۔

کیا سبب۔ (۱- محاورہ) کس وجہ سے۔ کس غرض سے۔

کیا ستم ہے؟ (۱- محاورہ) اندھیرے۔ تہرے۔

کیا سمجھا تھا۔ (۱- محاورہ) شاید کچھ اور سمجھا تھا۔ جیسا مشاہدے اور تجربے میں آیا ویسا ہی سمجھا تھا۔

کیا سمجھ کر؟ (۱- تابع فعل) ناحق۔ عبث۔ اپنی بساط اور فہم کے خلاف سمجھ کر۔

کیا سوچھی؟ (۱- محاورہ) کیا خیال پیدا ہوا۔ کیا دھن بندھی ہے۔

کیا سے کیا ہو جانا۔ (۱- محاورہ) انقلاب عظیم ہو جانا۔ کچھ کا کچھ ہو جانا۔

کیا شاخ تنکلی ہے۔ (۱- محاورہ) کوئی اٹھی اور عجیب بات ہو گئی ہے۔ ایسی کیا شان شکوہ اور شہتی بڑھ گئی ہے۔

کیا شان میں بٹا لگ جائے گا۔ (دیکھتے پڑ جائیں گے)؟ (۱- محاورہ) کونسا عرت میں بٹا لگ جائے گا۔ جب کوئی شخص کسی کام کے کرنے

میں پس و پیش کرتا ہے اس وقت طنز یا فقرہ بولا جاتا ہے۔

کیا شک ہے؟ (۱۔ محاورہ) یقین ہے۔

کیا شے ہے۔ (۱۔ محاورہ) عجیب چیز ہے۔ (۲۔ محاورہ) بے وقعت ہے۔ بے قدر ہے۔

کیا ضرور ہے۔ (۱۔ محاورہ) کوئی ضرورت نہیں۔

کیا علاج (ہے)۔ (۱۔ محاورہ) کچھ چارہ نہیں۔ کوئی تدبیر نہیں۔

کیا عرض۔ (۱۔ محاورہ) کیوں۔ کس لیے۔

کیا غضب کیا۔ (۱۔ محاورہ) کیا تھریا۔ بڑا ستم کیا۔

کیا غضب ہے۔ (۱۔ محاورہ) اندھیرے، تھہرے، ستم ہے۔

کیا غم ہے۔ (۱۔ محاورہ) کیا اندیشہ ہے۔ کیا فکر ہے۔ (۲۔ محاورہ) کچھ ڈر نہیں۔ کیا مضائقہ ہے۔

کیا فائدہ۔ (۱۔ محاورہ) بے فائدہ۔ بے نتیجہ۔

کیا فرض ہے۔ (۱۔ محاورہ) کچھ فرض نہیں۔ کچھ ضرورت نہیں۔ کوئی ٹکڑی نہیں۔

کیا فاضلی کی گدھی چڑانی ہے؟ ہمارے کونسا گناہ یا جرم کیا ہے جس کے سبب ڈریں؟

کیا فاضلی گلہ کرے گا؟ (۱۔ مثل) کچھ نقصان یا ضرر نہیں ہوگا۔ کوئی شکوہ شکایت نہیں کرے گا۔ کوئی نام نہیں دھرے گا۔ کوئی منہ پر بات نہ لائے گا۔

کیا تھہرے۔ (۱۔ مثل) کیا غضب ہے۔ کیا ستم ہے۔

کیا نیامت ہے۔ (۱۔ محاورہ) کیا بڑا ہے۔ کیا ستم ہے (۲۔ نہایت خوبصورت ہے۔ کس قدر حسین ہے۔

کیا کابل میں گدھے نہیں ہوتے۔ (۱۔ مثل) بے وقوف ہر جگہ ہوتے ہیں۔ کیا کام؟ (۱۔ تابع فعل) کچھ کام نہیں۔

کیا کچھ۔ (۱۔ تابع فعل) کس قدر۔ کتنا۔ بہت کچھ۔

کیا کچھ سنا چاہتے ہو۔ (۱۔ محاورہ) کلہ استغیا میر۔ گائیاں سننے کو جی چاہتا ہے۔ کیا کرنا ہے۔ (۱۔ محاورہ) ایسا نہ کر۔ کیا کام کر رہے۔

کیا کر لیا۔ (۱۔ محاورہ) کیا نقصان پہنچا یا۔ کچھ نقصان نہ پہنچا کے۔

کیا کروں۔ (۱۔ محاورہ) (۱) جیرانی۔ تیج اور مجبوری کے موقع پر پولا جاتا ہے۔ یعنی جیران ہوں مجبور ہوں۔ کوئی تدبیر تیار و کسی طرح تھی

دو۔ (۲) کس کام میں لاؤں؟ مجھے نہیں چاہیے۔

کیا کرے۔ (۱۔ محاورہ) مجبور ہے۔ کچھ علاج نہیں ہو سکتا۔

کیا کرے گا۔ کیا کرے گا؟ (۱۔ محاورہ) کچھ نہیں کر سکتا یا کیا کر سکتا ہے۔ کیا کرے گا ڈر کہ جسے دے مولانا۔ (۱۔ مثل) جسے سولا دے اُسے۔

تدبیر ہے کچھ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی دین میں کسی کو دخل نہیں۔

کیا کمی ہے۔ (۱۔ محاورہ) سب کچھ ہے۔ بہت کچھ ہے۔

کیا کوسوں؟ کیا کہہ کر کوسوں؟ (۱۔ محاورہ) جو تو ایسے ناراض ہیں کہ کوئی بددعا بھی ایسی نہیں پلٹے جو اس طالع کو رفع کرے اور ہمارا دل خندنا ہو۔

کیا کوئی آگ لگائے۔ (۱۔ محاورہ) بالکل بے کار ہے۔ کیا کہنا ہے۔ (۱۔ روزمرہ) کلمہ نعتین وطنز۔ کیا بات ہے؛ کیا پرچھنا ہے!

کیا کہیں۔ مجبوری اور بے بسی ظاہر کرنے کے لیے کہتے ہیں۔ کیا بیان کریں کیا شکایت کریں۔ قابل بیان نہیں۔

کیا کہیں گے۔ (۱۔ محاورہ) کیا خیال کریں گے۔ کیا شبہ کریں گے۔

کیا کیا؟ (۱۔ تابع فعل) افسوس۔ تعجب۔ حیرت اور پریشانی کے موقع پر بولتے ہیں۔ یعنی بڑا غضب کیا۔ نہایت شرم کی بات ہے۔

۲، کون سا بڑا کیا۔ کوئی بے جا بات نہیں کی۔

کیا کیا؟ (۱۔ تابع فعل) (۱) کون کون سا۔ (۲) سب کچھ۔ کس قدر۔ کیسے کیسے۔ کیا کیا کچھ۔ (۱۔ تابع فعل) کون کون سی بات۔ کون کون سی چیز بہت کچھ۔

کیا کیا کچھ کہا۔ کیا کیا کچھ نہ کہا۔ (۱۔ محاورہ) بہت بڑا بھلا کہا۔ کون کون سی بات نہ کہی۔

کیا کیا نہ ہوا۔ (۱۔ محاورہ) کون سی بات رہ گئی۔ کون سی بے عزتی تھی جو باقی رہ گئی۔

کیا کیجیے۔ (۱۔ روزمرہ) کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔

کیا کہ گزری؟ کیوں کہ سبیر ہوئی۔ کیا ہوا؟

کیا گت ہو گئی۔ (۱۔ محاورہ) کیا حالت ہو گئی۔

کیا گل پھولا (کھلا) ہے۔ (۱۔ مثل) کیا ہنساں اٹھا ہے۔ کیا خردالی نکل چھو؟ کون سی عجیب و غریب بات ظہور میں آئی ہے؟

کیا گونگے کا گڑا کھلایا ہے؟ (۱۔ مثل) کیوں نہیں بولتے۔ کیوں خاموشی اختیار کر لی ہے۔ کس لیے گونگے بن گئے ہو؟

کیا گیا۔ (۱۔ محاورہ) کیا نقصان ہوا۔

کیا نعل لگے ہیں۔ کیا ایسے نعل لگے ہیں؟ (۱۔ مثل) کون سی خوبی ہے (وطنز)

کیا لگتا ہے۔ (۱۔ محاورہ) کیا خرچ (نقصان) ہوتا ہے۔ (۲) کچھ تجنب نہیں۔

کیا لوگے۔ (۱۔ محاورہ) کیا فائدہ اٹھاؤ گے۔ کیا حاصل ہوگا۔ کیا پاؤ گے۔

کیا مال ہے۔ (۱۔ محاورہ) کیا حقیقت ہے نہایت کم قدر اور حقیر ہے۔ بے حقیقت اور ناچیز ہے۔ کون ہے۔

کیا مجال ہے۔ (۱۔ محاورہ) کیا مقدور ہے۔ کیا تاب و طاقت ہے۔ کیا کر سکتا ہے۔ کیا حوصلہ ہے؟

کیا چھلیاں سڑی جاتی ہیں؟ (۱۔ مثل) کیا جلدی تھی۔ کس بات کی جلدی پڑی تھی۔

کیا مذکور۔ (۱۔ روزمرہ) (۱) کیا تعریف۔ (۲) کچھ توقع نہیں۔ عمل نہیں۔ کیا مزے کی بات ہے۔ (۱۔ روزمرہ) کس قدر حیرت انگیز ہے جس قدر پر لطف بات ہے!

کیا مصیبت ہے۔ (۱۔ روزمرہ) بڑی مصیبت ہے۔

کیا معرکہ مارا۔ (۱۔ روزمرہ) بڑی فتح حاصل کی۔

کیا مقدر - (۱۔ روزمرہ) کیا حیثیت - کیا مجال - کیا تاب -
 کیا معنی - (۱۱۔ محاورہ) کیا وجہ - کیا سبب - کیوں - (۱۲) کیا مراد - کیا
 غرض - (۱۳) کیا حوصلہ - کیا مجال -
 کیا ممکن - (۱۴۔ روزمرہ) ناممکن ہے - نہیں ہو سکتا -
 کیا مُنہ - (۱۵۔ محاورہ) کیا مجال - کیا اُترتے - کیا حقیقت -
 کیا مُنہ پر پھٹکار برستی ہے - (۱۶۔ مثل) کیا لعنت برستی ہے - کیا بے لگتی
 اور اُو اس چہرے -
 کیا مُنہ دکھاؤ گے - (۱۷۔ مثل) کیا جواب دو گے - کیوں کر سامنے آؤ گے ؟
 کیا مُنہ دکھائیں - (۱۸۔ مثل) بڑے شرمندہ ہیں - سخت منہ ہیں -
 کیا مُنہ سے پھول چھڑتے ہیں - (۱۹۔ محاورہ) کیا کیسا خوش گفتار و خوش
 بیان ہے - کیا کیجیے ہے - (۲۰) کسی شخص کی بولائی پر طنز ناہمی کہا
 جاتا ہے -
 کیا مُنہ کا لوار ہے ؟ - (۲۱۔ مثل) یہ کچھ آسان کام تو نہیں کہ جلد ہو جائے -
 کیا مُنہ لے کر جاؤں - (۲۲۔ مثل) کس مُنہ سے جاؤں - جلتے ہوئے شرم
 آتی ہے -
 کیا مُنہ میں پتھیری (گھنگنیاں) ہے - (۲۳۔ مثل) بولتے کیوں نہیں -
 کیا مُنہ ہے ؟ - (۲۴۔ مثل) کیا حوصلہ ہے - کیا مقدر ہے ؟
 کیا ناک لے کر لولتے (بات کرتے کہو) - (۲۵۔ مثل) کس مُنہ سے
 بات کرتے ہو ؟ اپنے گریبان میں منڈ ڈال کر شرم ماؤ -
 کیا لشر پیاسے - (۲۶۔ روزمرہ) کیوں بہکی بہکی باتیں کرتے ہو -
 کیا تنگی نہاتے گی، کیا پتھر ٹرے گی - (۲۷۔ مثل) منہس آدی کیا دوسے
 گا - کیا دلائے گا ؟ منہس کے پاس کیا دھرا ہے - ؟
 کیا نہ چاہیے - (۲۸۔ روزمرہ) کیا نہا ہے - کیا بات ہے - (۲۹) سب کچھ
 چلے ہے - (۳۰) سب کچھ موجود ہے -
 کیا واسطہ - (۳۱۔ تابع فعل) کیا تعلق - کیا ملائہ - کیا نسبت - (۳۲) کیوں -
 کس لیے - کیا سبب ؟
 کیا ہاتھوں میں ہندی لگی ہے - (۳۳۔ مثل) کام کیوں نہیں کرتے -
 کیا ہستی ہے - (۳۴۔ روزمرہ) کیا حقیقت ہے - کچھ حقیقت نہیں - کیونکہ
 کیا ہو - (۳۵۔ روزمرہ) تہااری کوئی حقیقت نہیں - اب کیا کیا ہائے -
 کیا بُجرا - (۳۶۔ روزمرہ) کیا سال گرا - (۳۷) کون سا شخص رہ گیا - کیا
 بڑو گیا ؟ (۳۸) کیا بات ہے - کیا معاملہ ہے ؟ (۳۹) کچھ تعجب نہیں -
 (۴۰) کیا اندیشہ ہے - کیا ڈر ہے ؟
 کیا ہوا تھا - (۴۱۔ روزمرہ) کس خیال میں تھا - عقل کہاں تھی - حواس
 کہاں تھے ؟
 کیا ہوتا ؟ - (۴۲۔ روزمرہ) کیا حاصل ہوتا - کیا فائدہ ہوتا - کون سا کام
 جاتا - (۴۳) کیا بگڑ جاتا - کیا نقصان ہو جاتا ؟ (۴۴) کیا مصیبت پڑتی -
 (۴۵) کیا اچھا ہوتا - !
 کیا ہوگا - (۴۶۔ روزمرہ) کیا پیش آئے گا - کیا گذرے گا - (۴۷) کیا نقصان
 ہوگا - کیا بگڑے گا - (۴۸) کونسی آفت آجائے گی ؟ (۴۹) کچھ نہیں ہوگا -

کیا ہو گیا - (۱۔ روزمرہ) حیرت تعجب - افسوس اور دفعہ کسی معنی
 کے درگوں بولنے پر بولتے ہیں - (۲) کچھ ڈر نہیں -
 کیا ہوتا ہے - (۳۔ روزمرہ) کچھ فائدہ نہیں ہوگا - بیکار ہے - (۴) اس کا کیا
 نتیجہ ہوگا - کیا انقلاب ہوتا ہے -
 کیا ہی - (۵۔ تابع فعل) بہت ہی - بجزرت - (۶) عمدہ - حسبِ خواہ -
 مبارک -
 کیا ہے (۷۔ روزمرہ) کیا بات ہے - کیا معاملہ ہے - (۸) کون ہے - (۹)
 بیکار ہے - بنگما ہے - بے حقیقت ہے - (۱۰) کیوں ہے - (۱۱) کیا
 کہتے ہو -
 کیا بھر پورے لہ مار تے ہیں - (۱۲۔ مثل) [طنزاً] آنے سے کیوں
 ڈرتے ہو ؟
 کیا یاد کرو گے - کیا یاد رکھو گے - (۱۳۔ محاورہ) بہت یاد رکھو گے -
 مدت تک یاد کرتے رہو گے -
 کیسے کا پھیل پانا - (۱۴۔ محاورہ) بڑے اعمال کی سزا پانا -
 کیا - (۱۵) (یا) (تی) - (۱۶) مڈکڑا کہا - حکم -
 کیا - (۱۷) (یا) (جھ) - (۱۸) مذ [کیا ہوا فعل] عمل - جسے افعال -
 کیا آگے (سامنے) آئے - (۱۹۔ محاورہ) بڑے فعل کا نتیجہ اُٹھانا پڑے -
 کیا پانا - (۲۰۔ محاورہ) دیکھیے - کیا آگے آنا -
 کیا دھرا اکارت ہونا - (۲۱۔ محاورہ) جو کچھ کیا تھا سب غارت ہو جانا -
 کیا کرنا - (۲۲۔ محاورہ) پیشہ کوئی کام کرنا - کوئی کام مسلسل کرنا -
 کینا - (۲۳۔ صفت) مکار - عیار - فریبی - مکر کرنے والا -
 کیا راری - (۲۴۔ دیکھ - یا - بری) (۲۵۔ مثل) اکھیت یا باغ کا چھوٹا حصہ یا تختہ -
 تختہ باغ -
 کیا سمت - (۲۶۔ دیکھ - یا - سرت) (۲۷۔ مثل) ادائیگی - زیر کی - فہم و فراست -
 ہوش و خرد -
 کیا فی - (۲۸۔ دیکھ - یا - فی) (۲۹۔ صفت) کے کی طرف منسوب - بادشاہوں
 کے لائق -
 کیا ٹنگ - (۳۰۔ مثل) تبت کا گدھا -
 کیبیرا - (Cabaret) (انگ) (۳۱۔ مثل) ناچ کی ایک قسم -
 کیبن - (Cabin) (کے - بن) (انگ) (۳۲۔ مثل) کڑھڑی - کمرہ -
 کیبل - (Cable) (کے - بن) [سمندر کا برقی تار - بحری تار -
 کیبنٹ - (Cabinet) (کے - بی - ٹنٹ) (انگ) (۳۳۔ مثل) [۳]
 مجلس تنظیم - (۳۴) وزیروں کی مجلس - کا مینہ (۳۵) چھوٹا کمرہ - کونٹری -
 (۳۶) چھوٹی الماری -
 کیپ - (Cap) (انگ) (۳۷۔ مثل) گلاہ - ٹوپی
 کیپٹن - (Captain) (کیپ - ٹن) (انگ) (۳۸۔ مثل) ایک فوجی عہدہ -
 پکتان - سردار - لیڈر رکھیا - (۳۹) جہاز پاکستان - جنگی جہاز کا سردار -
 (۴۰) کیپٹن میں کسی فریق پاکستان -
 کیپسول - (Capsule) (کیپٹ - سول) (انگ) (۴۱۔ مثل) گویاں

یاد دانی رکھنے کی عملی وارڈ بیا۔ (۲۰) جہلی دار لغا فریا غلاف۔ (۳۰) خاتہ۔
 گھر۔ ڈوڑا۔
 کیمت۔ (۱-۱۰) مذ۔ ایک درخت اور اس کا ترش پھل۔
 کیریت۔ (۱-۱۰) مذ۔ ۱) دم دار ستارہ۔ کینٹو (۲) نوال ستارہ۔ (۳) کینٹی
 کا مختلف جو ایک شہور پھل ہے۔ (۴) کوڑا۔ تازیانہ۔ بیہ۔ مچی۔
 کیتکت۔ (کی تکت) [ق] کہاں تک۔
 کیتکتی۔ (کیتکت کی) [ہ] [م] ایک خوشبودار پودا جو کیوڑے کے
 درخت کے مشابہ ہوتا ہے۔
 کیتلی۔ (کیت لی) [ا] [ر] [۱-۱۰] مونث [ا]نگ (Kettle) کا موڑو
 ایک ٹوٹی والا ظرف جس میں چائے یا پانی جوش کرتے ہیں۔
 آفتاب۔
 کینٹھا۔ (کے تھ) [۱-۱۰] مذ [ا] دیکھیے کیت۔
 کینٹھانا۔ (کے تھانا) [۱-۱۰] مذ [ا] کاسٹیل کا محکمہ۔
 کینٹھولک۔ (Catholic) (کے تھولک) [ا]نگ۔ [۱-۱۰] مذ
 کٹر اور راج العقیدہ عیسائی۔ رومن کینٹھولک مذہب
 کا پابند۔
 کینٹھی۔ (کے تھی) [۱-۱۰] مؤنث [ا] ہندی زبان جو کاسٹھ
 کہتے ہیں۔
 کینتھیلڈرل۔ (Cathedral) (کے تھیلڈرل) [ا]نگ۔
 [۱-۱۰] مذ [ا] بڑا گرجا جس میں اسقف کا تخت ہوتا ہے کینتھ اسقف۔
 کینتھ۔ (کی تے) [ق] [ا] کہتے
 کینٹ۔ (۱-۱۰) مذ [۱] چراغ کی گاد۔ (۲) حقے کا میل۔ (۳) کیڑا کوڑا۔
 کینٹلاگ۔ (Catalogue) (کے تگ) [ا]نگ۔ [۱-۱۰] مذ
 فرد۔ فہرست۔
 کیچ۔ (Catch) (ا)نگ۔ [۱-۱۰] مذ [ا] پکڑ۔ گرفت۔ کرکٹ میں گیند
 دوپھینچنے کا عمل۔
 کیچ۔ کیچ۔ (کی چٹ) [۱-۱۰] مذ [۱] گاما۔ نلیظ مٹی۔ دلدل۔
 (۲) چرک چشم۔ چیپٹ۔
 کیچڑا اچھلانا۔ (۱) محاورہ [ا] الزام لگانا۔ بتان بانہنا۔ (۲) کیچڑا پھینکنا۔
 کیچڑا کی کوڑھی دانٹوں سے اٹھانا۔ (۱) محاورہ [ا] بے حد تھیل ہونا۔
 کیچڑا میں پھینسنا۔ (۱) محاورہ [۱] دلدل میں دھنسا۔ (۲) کسی صیدت یا
 وقت میں گھرنا۔
 کیچل۔ کیچلی۔ (کے چیل) [ا] [ی] [۱-۱۰] مذ [ا] دیکھیے کینٹھیلی۔ کینٹھیلی۔
 کیچڑا۔ (کیچڑے) [۱-۱۰] مذ [۱] ایک قسم کا لبا اولہ سبز رنگ کا کیڑا
 جو اکثر برسات کے موسم میں تناک زمیں میں پیدا ہو جاتا ہے (۲)
 ایک قسم کا پیٹ کا کیڑا۔ کرکٹنگ۔
 کیڈ۔ (۱-۱۰) مذ [ا] مکر۔ فریب۔ دھوکا۔ دغا۔
 کیڈھر۔ (کی دھر) [۱-۱۰] مذ [ا] تاج فصل [ا] کدھر (ق)
 کیڈٹ۔ (Cadet) (کے ڈٹ) [ا]نگ۔ [۱-۱۰] مذ [۱] فوجی کالج

کھالسب علم۔
 کیر۔ (ق) [۱-۱۰] مذ [ا] (۱) عضو تناسل۔ آلت۔ (۲) کیر (ق)
 کیرا۔ (کے) [ا] [۱-۱۰] مذ [ا] صفت [ا] تیلی آنکھوں والا۔ کرنگا۔ ارزق چشم
 کیرالین۔ (ا)نگ۔ [۱-۱۰] مذ [ا] ایک قسم کا عمدہ کیڑا۔
 کیرت۔ (کی رت) [ق] [۱-۱۰] مذ [ا] شہرت۔ نیکی۔
 کیرن۔ (۱-۱۰) مذ [ا] تعریف۔ ذکر۔ گفتگو۔ (۲) کیمٹوں کا گرتھ صاحب
 کو گاگر پٹھنا۔
 کیرنیر۔ (Carrier) (کے ری) [۱-۱۰] مذ [۱] بوجھ سے
 جانے والا۔ حمال۔ مزدور۔ (۲) بائیسکل کا پھلا حصہ جس پر سارے
 باندھا جاتا ہے۔
 کیرنیر۔ (Career) (کے ری) [ا] [۱-۱۰] مذ [ا] چال۔ روش۔
 ترقی۔ نشوونما۔
 کیری۔ (کے ری) [۱-۱۰] مذ [ا] کچا آم (۲) ایک قسم کا ظرف جس میں
 عطر رکھ کر گلے میں لگاتے ہیں۔
 کیری۔ (۱-۱۰) مذ [ا] مٹھ [ا] نیکی یا فخرتہ رنگ کی آنکھ۔ (۲) کرنجی آنکھ والی عورت
 کیری کی آنکھ۔ کرنجی آنکھ۔ چشم ارزق۔
 کیریکٹر۔ (Character) (کے ریکٹر) [ا] [۱-۱۰] مذ [۱] کردار۔
 شخص یا قوم کی خصوصیت۔ مہرشت۔ سیرت۔ خاصیت۔
 چال چلن۔ (۲) وہ افراد جو افسانہ نویس وغیرہ اپنے قصوں میں
 ایجاد کرتے ہیں۔ کردار۔
 کیرم بورڈ۔ (ا)نگ۔ [۱-۱۰] مذ [ا] ایک تختہ جس پر قریب نما ٹیپوں سے کھیلے ہیں۔
 کیرمی کچیر۔ (Caricature) (کے ری) [۱-۱۰] مذ [۱]
 کسی شخص یا چیز کے نمایاں حصے کو لے کر تصویر، تحریر یا بیان کے
 ذریعے سے خاکہ اڑانا۔ خندہ آور بگاڑی ہوئی تصویر۔ ججو کی
 تصویر۔
 کیرا۔ (کی ٹرا) [۱-۱۰] مذ [۱] گرم۔ کوڑا۔ حشرات الارض۔ گھن۔
 رینکنے والا جانور۔ (۲) سانپ۔ ناگ۔
 کیرا اچھلنا۔ (۱) محاورہ [۱] عفت مشائخ کا زور کرنا۔
 کیرا دباننا۔ (۱) محاورہ [۱] نفسانی خواہش کا مٹانا۔ ٹیل مٹانا۔
 کیرا سا۔ (۱) صفت [۱] چھوٹا سا۔ ڈبلا پنڈا۔
 کیرا کلبانا۔ (۱) محاورہ [۱] خواہش نفسانی کا زور ہونا۔ ٹیل مٹوانے کو دل
 چاہنا۔
 کیرا لگنا۔ (۱) محاورہ [۱] دیک لگنا۔ گرم خوردہ ہونا۔ گھن لگنا۔
 کیرے پڑنا۔ (۱) مٹھلنے سے کسی چیز میں گرم پیدا ہو جانا۔ (۲) عیب
 ہونا۔ نقص ہونا۔
 کیرے پڑیں۔ (۱) روزمرہ [۱] دغاے بد لگے مڑے۔
 کیرے ڈالنا۔ (۱) محاورہ [۱] عیب نکالنا۔ نقص نکالنا۔
 کیرے کا چاٹ جانا۔ (۱) محاورہ [۱] کیرے کا کیرے کو کھا جانا۔
 کیرٹی۔ (کی ٹری) [۱-۱۰] مذ [۱] چوٹی۔ (۲) جرمک۔

کیفیٹیہ یا۔ (Cafe Teria) (ایک۔ ۱۔) [مذ] وہ طعام گاہ جہاں ٹیکے خوردی ضرورت کی چیزیں نکال کر استعمال کرتا ہے۔ اپنی خدمت خود کرتا ہے۔

کیغہ۔ (کے۔ قر۔) [ف۔ ۱۰۔ مذ] سزا۔ پاداش۔ بڑے کام کا بدلہ۔

کیغہ گردوار۔ (و۔ ۱۰۔ مذ) کیغہ کی سزا۔ کار بد کی سزا۔ بڑے کام کا بدلہ۔

کیغہ گردار کو پہنچنا۔ (۱۔ عاوردہ) اپنی سزا کو پہنچنا۔ کیغہ کی سزا پانا۔ نذارت اٹھانا۔ کرنی کا پھل پانا۔

کیغنی۔ (کے۔ بی۔) [ع۔ صفت] (۱۔) متوالا۔ مدہوش۔ سرسور۔ محمور۔ سرشار۔ نشہ میں چور۔ (۲۔) [اُر] نشہ باز۔

کیغنی۔ (Cafe) (کے۔ نے۔) [ایک۔ ۱۔ مذ] قہوہ خانہ۔

کیغنییت۔ (کے۔ فی۔) [بیت۔ ع۔ ۱۔ مرث] (۱۔) حالت۔ احوال۔ حیثیت۔ (۲۔) عالم۔ رنگ۔ ڈھنگ۔ (۳۔) [اُر] شرح۔ تفسیر۔ تشریح۔ (۴۔) جون۔ رونق۔ (۵۔) مزہ۔ لطف۔ جمع۔ کیغنیات۔

کیغنییت بندولست۔ (ع۔ ف۔ ۱۔) مرث۔ بندوبست کی رپورٹ۔ تحقیقات مکمل ہونے کی رپورٹ۔

کیغنییت جب ہے۔ (۱۔ عاوردہ) لطف جب ہے۔

کیغنییت طلب کرنا۔ (۱۔ عاوردہ) استفسار کرنا۔ پوچھنا۔ سرکاری طور پر دریافت کرنا۔ باز پرس کرنا۔

کیغنییت گھنا۔ (۱۔ عاوردہ) تحریر کی رپورٹ کرنا۔

کیغنییت میں رہنا۔ (۱۔ عاوردہ) نشہ میں رہنا۔

کیغنیقباد۔ (دیکھ۔ باد) [ف۔ صفت] (۱۔) عادل۔ برحق۔ [مذ] عجم کا ایک بادشاہ جس نے سو سال تک حکومت کی۔ (۲۔) دہلی کے بادشاہ مظفر الدین کا لقب جو امیر خسرو کا مدوح تھا۔

کیک۔ (Cake) (ایک۔ ۱۔ مذ] ایک قسم کی انگریزی مٹائی یا روٹی جو میوہ۔ انڈے۔ میوے وغیرہ وال کر سانچے کے ذریعے تیار میں پکائی جاتی ہے۔

کیکاؤس۔ (کے۔ کا۔ اس۔) [ف۔ ۱۔ مذ] ایران کا ایک مشہور بادشاہ۔ رستم پہلوان اسی کا ملازم تھا۔

کیکیٹا۔ (کی۔ ک۔) [باڑ۔ ق۔ ۱۔] مذکر جانوروں کا چارہ۔

کیکیٹر۔ (کی۔ کر۔) [مذ] بول کا درخت۔ منیلاں۔

کیکیٹری۔ (کیکیٹ۔ ری۔) [ص۔ ۱۔ مرث] (۱۔) چھوٹا ٹیکہ۔ ٹیکہ کا پودا۔ (۲۔) ایک قسم کی بھائی جو کھڑے کو کھڑے کر لگنے سے اسی کے اندر بناتے چلے جاتے ہیں۔

کیکیٹرا۔ (کیکیٹ۔ ٹرا۔) [مذ] سرطان۔ کرک۔ ایک آبی کیڑا جو بچھڑے سے مشابہ ہوتا ہے۔

کیکینا۔ (کیکیٹ۔ نا۔) [ص۔ ۱۔] چینی۔ چلا نا۔ پکارنا۔ بندر کا کھاری مارنا۔

کیکیل۔ (کی۔ ۱۔ مرث] (۱۔) میخ۔ لوسہ کی کھونٹی۔ (۲۔) ہاسولی یا چوڑے کے اندر کی جی ہوتی پیپ۔ (۳۔) ناک میں پھینے کا زید جو نونک کی شکل کا ہوتا ہے۔ (۴۔) لوسہ کی کپلی جو پکی میں ہوتی ہے۔ (۵۔) نشتر۔

کیکیٹریاں لگانا۔ (۱۔ عاوردہ) جو کیکیٹ لگانا۔

کیکیٹ۔ (Case) (ایک۔ ۱۔ مذ] (۱۔) معاملہ۔ وقوعہ۔ حالات۔ کیفیت۔ (۲۔) مقدمہ۔ دعویٰ۔ نالش۔ عرض حال۔ (۳۔) مرثین جو ڈاکٹر کے زیر علاج ہو۔ بیمار کی حالت مرض۔ (۴۔) ڈھنگا۔ خانہ۔ پتی۔ بکس۔ (۵۔) ثابت رکھنے کا خانہ لاد بکس یا فریم۔ (۶۔) نظیر۔ تمثیل۔ حوالہ۔

کیکیٹ۔ (۱۔ ۱۰۔ مذ] (۱۱۔) بال۔ موٹے سر۔ لمبے بال۔ (۱۲۔) بزم کی چوٹی۔

کیکیٹا۔ (کے۔ سا۔) [ص۔ صفت و تابع فعل] (۱۱۔) کس قسم کا۔ (۱۲۔) کس چیز کا۔ (۱۳۔) کس کام کا۔ (۱۴۔) کیوں۔ کس لیے۔ (۱۵۔) کس قدر۔ کتنے۔ کس وجہ۔ از حد (۱۶۔) کس ڈھنگ سے (۱۷۔) استفہام (کھاری) کیا ذکر۔ (۱۸۔) کہاں کا۔ کس کا۔

کیکیٹا علاج کرتا ہوں۔ (۱۔ عاوردہ) قرار دانی سزا دینے کی جگہ بولتے ہیں۔

کیکیٹا کیسی۔ (۱۔) تابع فعل (طرح طرح سے۔ ہر طرح سے۔

کیکیٹا ہی۔ (۱۔) تابع فعل (کتنا ہی۔ کسی قدر۔ تباہ مقدر۔) کسی قسم کا ہی۔ کسی طرح کا ہی۔

کیکیٹر۔ (کے۔ ستر۔) [مرث] زعفران۔ زرد رنگ کا ایک نہایت خوشبودار پھول۔

کیکیٹری۔ (کیکیٹ۔ ری۔) [ص۔ صفت] زعفرانی۔ زرد۔

کیکیٹری پانا۔ (۱۔ ۱۰۔ مذ] زعفرانی پوشاک جو ہندو ڈولہا کو پہناتے ہیں۔ ہندو راجپوت میدان جنگ میں یہی لباس پہن کر جابجا کرتے تھے۔

کیکیٹہ۔ (کی۔ ستر۔) [ف۔ ۱۔ مذ] جیب۔ پاکٹ۔ تھیلہ۔ کیکیٹہ بڑے۔ (ف۔ صفت) گٹھ کترا۔ جیب کترا۔ اچکا۔

کیکیٹے میں نہیں کھل کی ڈلی۔ (۱۔) مثل، منطقی میں اترانا بانکا پھیرے علی کھی

کیکیٹی۔ (کے۔ سی۔) [ص۔ صفت و تابع فعل] کیکیٹا کی تائیت۔

کیکیٹی مسجد کیسی مندر، جو دیکھو وہ دل کے اندر۔ (۱۔) مثل، یہ قول وحدت الوجود والوں کا ہے۔ اس سے ان کا یہ مراد ہے کہ دل میں سب کچھ موجود ہے۔ خدا پر جگہ موجود ہے۔

کیکیٹ۔ (ف۔ ۱۔ ۱۰۔ مذ] (۱۱۔) مذہب۔ دین۔ اعتقاد۔ (۱۲۔) عادت۔ غصلت۔ (۱۳۔) صفت۔ وصف۔ طور۔ طریقہ۔ ڈھنگ۔ روشنس۔ (۱۴۔) ترکش۔ تیردان۔

کیکیٹ۔ (Cash) (ایک۔ ۱۔ مذ] نقد روپیہ پیسہ۔ نقدی۔ روکر۔

کیکیٹ بک۔ (Cash Book) (ایک۔ ۱۔ مرث] روکر بک۔ نقد کے حساب کی کتاب۔

کیکیٹ۔ (ع۔ ۱۔ ۱۰۔ مذ] (۱۱۔) نشہ۔ شمار۔ سرور۔ (۱۲۔) حالت۔ کیفیت۔ کیکیٹ کر کیسی۔

کیکیٹ و کم۔ (ع۔ صفت) کیسی۔ کتنا۔

کیل ڈالنا - (۱۔ محاورہ) بس میں لانا۔ (۲) سائب کو منتر کے زور سے ڈسنے سے روکنا۔ (۳) کھیل پر منتر پڑھ کر اس کے ذریعے کسی کو قابو کر لینا۔

کیل کا کھٹکا نہیں - (۱۔ محاورہ) کسی شے کا خوف و اندیشہ نہیں۔

کیل کاٹنا - (۱۔ مذ) (۲) اوزار - (۳) ایک قسم کا زیور۔ (۴) بچوں کا ایک کھیل۔

کیل کانٹے سے درست (لیس) ہونا - (۱۔ محاورہ) سنج ہونا۔ اپنی سامان بیکری تیار ہونا۔

کیل گھر - (۱۔ مذ) مدح۔

کیل نکالنا - (۱) پھینسی یا مہا سے کودا کر اس کے اندر سے پیچک خشک مادہ نکالنا۔ (۲) مارتے مارتے گوہ نکالنا۔ خوب ٹھیک بنانا۔ (۳) گائے بھینس وغیرہ کے بیلانے پر قنڈوں میں سے جہاں ہوا دور و دور نکالنا۔

کیللا - (کے۔ لا) (۱۔ مذ) ایک درخت اور اس کا پھل جس کی پھلی بچی اور میٹھی ہوتی ہے۔

کیللا - (کی۔ لا) (۱۔ مذ) (۲) کھوٹا۔ بڑی بیخ - (۳) گوشت خورد جانوروں کے وہ دونوں بڑے دانت جن کے ذریعے سے وہ گوشت کھاتے یا خنک بکراتے ہیں۔ چیل۔ کتہ دانت۔

کیلیمیم - (Calcium) کیلیم۔ جس۔ یم۔ [۲] پونا۔ ایک کیلیمیادی عنصر۔

کیلینا - (۱۔ ہنس) منتر سے سائب کو قابو کرنا۔ (۲) منتر پڑھ کر مکان کے کونوں میں کیلیوں گاڑنا تاکہ وہاں آسیب کا اثر نہ ہو۔ (۳) کیلیوں ٹھونکا۔ (۴) آنے جانے سے روک دینا۔ (۵) قابو میں کرنا۔ (۶) ہاڈو کے زور سے کسی کو روکنے سے باز رکھنا۔ (۷) تہیز کرنا۔

کیلنڈر - (Calendar) (کے۔ لن۔ ڈر) [۱۔ مذ] جنتری۔ تقویم۔ نظام۔ فہرست۔ پترا۔

کیلووس - (کے۔ ٹوس) [۱۔ مذ] غذا کا مدد سے میں پہنچا ہنم۔

کیلی - (کی۔ لی) [۱۔ مذ] (۲) گڑھی کی کھوٹی۔ (۳) لوہے کی لائٹھ۔ (۴) کشتی کا ایک داؤں (۵) بیچ۔

کیلی بارا چلانا - (۱۔ محاورہ) کنواں چلانا۔ کنوئیں کا پانی بیلوں کے ذریعے سے نکالنا۔

کیلی کرنا - (۱۔ محاورہ) پیلوانوں کا کشتی کے وقت وہ بیچ کرنا جسے کیلی کہتے ہیں۔ مانگوں میں ہاتھ ڈال کر مارنا۔

کیلی والا - کیلیا۔ (۱۔ صفت) (۲) وہ شخص جو کنوئیں کے نیل جوتا ہے۔ (۳) پانی کا چرس ڈالنے اور نکالنے والا۔

کیلیڈوسکوپ - (Kaleidoscope) (کے۔ لے۔ ڈوس۔ کوپ) [۱۔ مذ] عکس نما۔ عکس بین۔ ایک نگلی جس میں رنگین شیشوں کے ٹکڑے لگے ہوتے ہیں۔ اور جن کے عکس کے سڈول اور قنارب تشکیل پیدا ہوتی ہیں۔ اور نگلی کے پھرانے سے بدلتی رہتی ہیں۔

کیلیکو - (Calico) (کے۔ لی۔ کو) [۱۔ مذ] پینا ہوا کپڑا۔ چھینٹ۔

کیٹمپ - (Camp) [۱۔ مذ] پڑاؤ۔ چھاؤنی۔ لشکر گاہ۔

قرب ڈیرا - خیمہ زن ہونا۔

کیکمپ کلرک - (Camp Clerk) [۱۔ مذ] وہ مختصر یا منشی جو لشکر گاہ میں آمدنی و خرچ وغیرہ کا حساب رکھتا ہے۔

کیکھوت - (کی۔ کھوت) [۱۔ مذ] مرث [۲] گھڑے یا گدھے کی پیٹھ کی کھال۔ دانہ دار چبڑا۔ گھوڑے کا چبڑا۔

کیکمر - (Camera) [کیئم۔ ورا] [۱۔ مذ] عکسی تصویر کھینچنے کا آلہ۔ (۲) بیج کا پوشیدہ کرا۔

کیکمرک - (Cambric) [کیئم۔ رکت] [۱۔ مذ] مرث، ایک نہایت عمدہ اور بار بارک لٹھا جو جن سکھ کے مشاہیر ہوتا ہے۔

کیکمرٹ - (Chemist) (کے۔ مرٹ) [۱۔ مذ] [۲] کیسیا وان۔ دواسا۔ دوا فروش۔

کیکمرٹری - (Chemistry) (کے۔ مرٹ۔ ری) [۱۔ مذ] [۲] علم کیمیا۔ (رسائن دویا)

کیکوس - (کے۔ ٹوس) [۱۔ مذ] (۲) وہ رفیق شے جو عمدہ میں کٹا ہنم ہونے کے بعد پیدا ہو۔ غذا کا مدد سے میں ڈوسرا ہنم۔

کیکمیبا - (کی۔ بی۔ یا) [۱۔ مذ] (۲) ایک کو چاندی یا تانبے کو سونا بنانا۔ (۳) مجازاً رسائن۔ اکیر (۴) خاصیت و ماہیت اشیا کا علم۔ کیکمرٹری - (۲) [۱۔ صفت] نہایت مفید۔ تیر ہدف میں طیب۔

کیکمیبا اثر - (۲۔ صفت) کیمیا کا اثر رکھنے والی چیز۔ فوری اثر کرنے والی۔

کیکمیبا بنانا - (۱۔ محاورہ) (۲) رسائن بنانا۔ چاندی کا سونا بنانا۔ (۳) مطلب حاصل کرنا۔ آسانی سے روزی حاصل کرنا۔

کیکمیبا گر - (۲۔ صفت) (۳) ہٹوس۔ کیمیا بنانے والا۔ فرساز۔ (۴) چالاک۔ مکار۔

کیکمیبا گری - (۲۔ صفت) (۱۔ مذ) چاندی سونا بنانے کا فن۔

کیکمیباوی - کیمیمیائی - (کیئم۔ یا۔ وی۔ کیئم۔ یا۔ ای) (۲) صفت آکیمیبا کے متعلق۔ کیمیاوی - کیمیاوی اشیا۔ وہ اشیا جو کیمیاوی اعمال سے حاصل ہوں۔ یا ان میں استعمال ہوں۔

کیکمیباوی الف - کیمیاوی نسبت۔ مماثلت۔ (Chemical Affinity)

کیکمیباوی تبدیلی - کیمیاوی کا پلٹ۔ تغیر رنگی۔ بالکل بدل جانا۔ ٹھوس چیز کا مٹیال اور مٹیال چیز کا مٹیال بننا۔ (Chemical Transformation)

کیکمیباوی توازن - کیمیاوی مساوات برابر (Chemical Equilibrium)

کیکمیباوی کاشت - کیمیاوی کھیتی باڑی۔ (Chemiculture)

کیکمیباے احمد - (۱۔ مذ) شرح گدھک ہونا یا ب ہے اور جس کے متعلق خیال ہے کہ اس سے تانبے کا سونا بن جاتا ہے۔

کیکین - (کی۔ ن) (۱۔ صفت) (۲) حقد بغض۔ دشمنی۔ عداوت۔ بیر۔

کیکینال - (کی۔ نال) [۱۔ مذ] [۲] مرث [۳] متاع۔

کیکینٹ - (Cantab) [کیئن۔ ٹب] [۱۔ مذ] کیمرج یونیورسٹی کے متعلق۔ کیمرج یونیورسٹی کا تعلیم یافتہ۔

کیولری - (Cavalry) [کے۔ ولسر۔ ری] [انگ۔ ۱۔ مٹ] گھوڑسوار
فوج۔ سواروں کا رمالہ۔
کیول ؟ (۱۔ کلیمز استقام) کس لیے۔ کس سبب سے۔ کس خاطر کس وجہ
سے۔ کس باعث۔

کیول انڈھائیوٹا کیول دوبلائے۔ (۱۔ ایشل) اپنی بے ذوقی سے دوگنا
نقصان اٹھانے کی جگہ بولتے ہیں۔ یعنی انڈھے شخص کو بلاؤ گے تو
ایک کے ساتھ دوسرا بھی آئے گا کیونکہ انڈھا کسی کی مدد کے بغیر
نہیں آسکتا۔

کیول بے۔ کیول رسے۔ (۱۔ تابع فعل) [حقوقاً] کیول جی ؟
کیول حبان مخلقی ہے۔ کیول دم نکلتا ہے۔ (۱۔ محاورہ) (۱) کس لیے
مراجا ہے۔ کس لیے گھبراتا ہے۔ تجھے کیا غرض۔ تجھے کیا مطلب۔
تجھ کو کیا پڑی ہے۔ (۱) جلد ہی کیل ہے۔

کیول جی۔ (۱۔ تابع فعل) کیول صاحب۔
کیول چبا چبا کر ہاتھیں کرتے ہو۔ (۱۔ مٹل) کس لیے طنز آمیز باتیں
کرتے ہو۔ کس واسطے اس قدر اتراتے ہو۔

کیول وانت نکالتا ہے۔ (۱۔ روزمرہ) بے عمل ہنسنے پر کہتے ہیں۔
کیول کانٹوں میں گھیسٹے ہو۔ (۱۔ مٹل) کس لیے شرمندہ کرتے ہو۔
کیول کر۔ (۱۔ تابع فعل) کس طرح۔ کس بے۔ کیسے۔ کس بنا پر۔

کیول کر عرض کروں۔ (۱۔ متقولہ) کہہ نہیں سکتا۔ بیان کرنا مشکل ہے۔
کیول کر ہو۔ (۱۔ تابع فعل) کیا سامان ہو۔ کیا تدبیر ہو۔ کیسے ہو۔
کیول کمر دیونکہ۔ (۱۔ تابع فعل) اس لیے کہ۔ اس طرح کہ۔
کیول کیسی کہی۔ (۱۔ محاورہ) کیسی اونکی بات کہی۔

کیول گولر کا پیٹ پھڑواتا ہے۔ (۱۔ مٹل) کیول پوشیدہ عیوب
ظاہر کرتا ہے۔

کیول مرے جانتے ہو۔ (۱۔ محاورہ) کیول گھبرائے ہو۔ کیول اس قدر
پریشان ہو رہے ہو۔

کیول مغز کھاتا ہے۔ (۱۔ محاورہ) چپ رہو۔ بگ بگ نہ کرو۔
کیول نہ ہو۔ (کلیمز نہیں) (۱۔ آفرین) سجان اللہ۔ واہ وا۔ کیا کہنا ہے۔
کوئی انکار نہیں کر سکتا۔

کیول نہیں۔ (کلیمز اقرار) (۱) کیا وجہ۔ کیا سبب۔ (۱) ضرور۔ بلاشبہ۔

(۱) ایسے ہی ہو۔ ایسا ہی ہے۔ کون انکار کر سکتا ہے۔
کیول ہم نہ کہتے تھے۔ (۱۔ محاورہ) آخر وہی ہوا جو ہم کہتے تھے۔

کیول ہاں۔ (کے۔ ہاں) [فت۔ ۱۔ مذکر] دیکھیے گیان۔ زمانہ جہان۔
کیول۔ (کے۔ ہاں) [فت۔ ۱۔ مونث] شدید گرمی جب ہوا بند ہو جس۔
کیسے کی سزا پانا۔ (۱۔ محاورہ) برے کاموں کی سزا جھگٹنا۔

کینٹین۔ (Canteen) (کین۔ ٹین) [انگ۔ ۱۔ مٹ] چھائی اور
باروں میں خورد و نوش کی دوکان۔
کینٹیل۔ کینٹی۔ (کین۔ ٹیل۔ کینج۔ لی) [فت۔ ۱۔ مٹ] (۱) سانپ کی سیند
جھلی جو اس کے جسم کے اوپر سے اترتی ہے۔ (۱) [ہانا] لباس۔
پوشاک۔

کینٹیلی بدلنا۔ کینٹیل جھاڑنا۔ (۱) سانپ کا پرانی جھلی بدل کر نئی جھلی لانا۔
(۱) [ظرافتاً] پوشاک بدلنا۔ بکھڑنا۔ روپ نکالنا۔

کینچوا۔ (کینج۔ وا) [فت۔ ۱۔ مذ] دیکھیے کچوا۔
کینٹنا۔ (کین۔ ٹنا) [فت۔ ۱۔ مذ] نمونہ۔ پیمانہ ڈول۔ اندازہ۔ خاکہ۔ ناپ۔
وجہ۔

کینڈا کرنا۔ (۱۔ محاورہ) سرسری پیمائش کرنا۔ ناپنا۔ تخمینہ لگانا۔
کینڈل۔ (Candle) (کین۔ ڈل) [انگ۔ ۱۔ مٹ] [موم۔ تی۔

کینڈل پاور۔ (Candle Power) [انگ۔ ۱۔ مٹ]۔
تی طاقت۔ نور کی پیمائش کی اکائی۔

کینسر۔ (Cancer) (کین۔ سر) [انگ۔ ۱۔ مذ] (۱) سرطان
کی بیماری۔ بھگند۔ راج چھوٹا۔ کیکڑا۔ خط سرطان (۱) خراب
عادت جو ناسور کی طرح لا علاج ہو گئی ہو۔

کینسل۔ (Cancel) (کین۔ سل) [انگ۔ ۱۔ مٹ] قلمزدگرا۔
منسوخ کرنا۔

کینٹگل۔ (کین۔ ٹگل) [ق۔ ۱۔ مذ] ایک قسم کا میوہ جو جڑ کی شکل میں
زمین میں بڑھتا ہے۔

کینوس۔ (Canvas) (کین۔ وس) [انگ۔ ۱۔ مذ] کرچ۔
ولایتی ٹاٹ۔ تصویر۔ نقاشی وغیرہ کے لیے)

کینتہ۔ (کی۔ تہ) [فت۔ ۱۔ مذ] کین۔ حمد۔ بغض۔ عداوت۔ کپٹ
کینتہ پرور۔ کینتہ توڑ۔ کینتہ ور۔ کینتہ کش۔ (فت۔ ۱۔ صفت) کینتہ
رکھنے والا بغض رکھنے والا۔ دشمنی رکھنے والا۔ حامد۔ کپٹی۔

کینتہ رکھنا۔ (۱۔ محاورہ) عداوت رکھنا۔ دشمنی رکھنا۔
کیوال۔ (کے۔ وال) [فت۔ ۱۔ مذ] [تزل۔ ستارہ۔ سینچر۔ دمبازا]۔
ساتراں آسمان۔

کیوٹی۔ (کیو۔ ٹی) [فت۔ ۱۔ مٹ] [بی۔ جونی والیں]۔
کیوریٹر۔ (Curator) (کیو۔ رسے۔ ٹر) [انگ۔ ۱۔ مذ] [فت۔ ۱۔ مٹ] [تظم۔

ہتہ۔ نجبان۔ محافظ (مجاہد گھر وغیرہ) (۱) رکن مجلس
انتظامیہ (مجامعہ)

کیوٹرا۔ (۱۔ ۱۰۔ مذ) [فت۔ ۱۔ مٹ] [انگ۔ ۱۔ مذ] [فت۔ ۱۔ مٹ] [تظم۔
کیوٹرا۔ (۱۔ ۱۰۔ مذ) [فت۔ ۱۔ مٹ] [انگ۔ ۱۔ مذ] [فت۔ ۱۔ مٹ] [تظم۔

کیوٹرا۔ (۱۔ ۱۰۔ مذ) [فت۔ ۱۔ مٹ] [انگ۔ ۱۔ مذ] [فت۔ ۱۔ مٹ] [تظم۔
کیوٹرا۔ (۱۔ ۱۰۔ مذ) [فت۔ ۱۔ مٹ] [انگ۔ ۱۔ مذ] [فت۔ ۱۔ مٹ] [تظم۔

کیوٹرا۔ (۱۔ ۱۰۔ مذ) [فت۔ ۱۔ مٹ] [انگ۔ ۱۔ مذ] [فت۔ ۱۔ مٹ] [تظم۔
کیوٹرا۔ (۱۔ ۱۰۔ مذ) [فت۔ ۱۔ مٹ] [انگ۔ ۱۔ مذ] [فت۔ ۱۔ مٹ] [تظم۔

کیوٹرا۔ (۱۔ ۱۰۔ مذ) [فت۔ ۱۔ مٹ] [انگ۔ ۱۔ مذ] [فت۔ ۱۔ مٹ] [تظم۔
کیوٹرا۔ (۱۔ ۱۰۔ مذ) [فت۔ ۱۔ مٹ] [انگ۔ ۱۔ مذ] [فت۔ ۱۔ مٹ] [تظم۔

کیوٹرا۔ (۱۔ ۱۰۔ مذ) [فت۔ ۱۔ مٹ] [انگ۔ ۱۔ مذ] [فت۔ ۱۔ مٹ] [تظم۔
کیوٹرا۔ (۱۔ ۱۰۔ مذ) [فت۔ ۱۔ مٹ] [انگ۔ ۱۔ مذ] [فت۔ ۱۔ مٹ] [تظم۔

کیوٹرا۔ (۱۔ ۱۰۔ مذ) [فت۔ ۱۔ مٹ] [انگ۔ ۱۔ مذ] [فت۔ ۱۔ مٹ] [تظم۔
کیوٹرا۔ (۱۔ ۱۰۔ مذ) [فت۔ ۱۔ مٹ] [انگ۔ ۱۔ مذ] [فت۔ ۱۔ مٹ] [تظم۔

گ

گدگات، گت، ۱۔ مذم اردو کا آنتیسواں، فارسی کا چھبیسواں اور ہندی کا تیسرا حرف حساب ایک میں کان شمار ہوتا ہے اور اس کے بھی بیس عدد فرض کیے گئے ہیں۔

گ۔ ۱۔

گاہ (۵) علامت مستقبل جیسے گئے گا۔ پڑے گا (۲) گانا، مصدر سے فعل امر۔
گاہ (۱-۵) گوا، مغز۔

گاہا۔ گاہیا۔ (گاہ۔ گاہ۔ گاہ) (۱-۵) پیر کا نیا پتا (۲) لکڑی کا گودا۔
(۳) پرانی روٹی (۴) درخت کے پوست کا تازہ حصہ۔ خاص کر کیلے کے
پوست کا تازہ حصہ (۵) گھڑی کی پتی۔ کچا ناچ۔ درخت کے اندر
کا نرم حصہ۔ مغز۔

گاہیہ (۱-۵) حیوانات کا محل (۲) کچی فصل۔ کم پختہ غلہ۔
گاہیہ ڈالنا۔ حیوانات کا خام محل کرنا۔

گاہیہ۔ گاہیہ۔ (گاہیہ۔ گاہیہ۔ گاہیہ) (۱-۵) حیوان جس کے پیٹ
میں بچہ ہو (۲) حاملہ عورت۔

گاہیہ (گاہیہ) گاہیہ ڈالتی ہے۔ بڑا رعب اور دبدبہ ہے غون کے

مارے حاملہ عورتوں کے حمل ضائع ہو جاتے ہیں۔
گاہیہ۔ (گاہیہ۔ گاہیہ) (۱-۵) کشتی یا جہاز کا ایک پردہ جو بادبان کی
قسم کا ہوتا ہے۔

گاہیہ (۱-۵) وضع۔ اسلوب (۲) حمل پیٹ (۳) عورت کی چھاتیوں
کی ہیئت۔ پستان کا اجماع (۴) عورت کا اوپر کا دھڑ۔

گاہیہ بھرنے۔ عورت کے بالغ ہونے پر اس کی چھاتیاں نمودار ہونا۔
گاہیہ اٹکنا۔ چھاتیاں بھرنے پر عورت کے بالغ ہونے کی علامت ظاہر ہونا۔
گاہیہ سے ہونا۔ حمل سے ہونا۔ حاملہ ہونا۔

گاہیہ نکالنا۔ جسم کی خوشنماں ظاہر کرنا۔
گاہیہ۔ (گاہیہ۔ گاہیہ) (۱-۵) چادر یا ٹیپے کو کندھوں کے اوپر لے جا کر سینے پر
باندھنے کا خاص طرز۔

گاہیہ باندھنا۔ چادر یا ڈپے کو دونوں کندھوں پر ڈال کر سینہ پر باندھنا۔
گاہیہ گاتے۔ (گاہیہ۔ گاہیہ) (۱-۵) گاہیہ۔ (۱) اصل، کام کرنے کرتے آدمی
گاتے گاتے کلاؤنت، بوہی جا ما ہے۔ (۱) اصل، کام کرنے کرتے آدمی

کاٹھن تجربہ کار ہوتا ہے۔ سیکھتے سیکھتے انسان ماہر ہو جاتا ہے۔
 گامھی (بق) کاٹھن۔

گاج (1-56)۔ مٹ (گرج، بجلی، برقی، ۲) غضب۔ قہر خفتہ۔

گاج پڑنا۔ بجلی گزنا
 گاج کڑنا۔ جھا کا قبر نازل ہونا۔

گاجر۔ گاج (۱-56)۔ مٹ (نارنجی یا سیاہ رنگ کی ایک مخروطی بریلو)

کھالی جاتی ہے۔

گاجر کھانچوٹا چھینکا۔ مال رسی مال میراٹک ٹک سہاگ بوہڑا۔

(۱) مثل (بوی سے نفرت کرنے والا شوہر اس کی طرف ذرا متوجہ ہو یا

حبیب کوئی آدمی کسی غریب کی طرف التفات کرے۔ تو یہ مثل بولی

جاتی ہے۔

گاجر مٹولی۔ دوتر کاروں کے نام (۱) (جھاڑ) بے قدر۔ بے وقعت۔ سستی

گاجر مٹولی سمجھنا۔ کم قیمت خیال کرنا۔ بے قدر جاننا۔

گاجنا۔ گاج (۱-56)۔ مٹ (گرجنا۔ چنگھاڑنا۔ دھاڑنا ۲) خوش درخ ہونا

(۳) ناگوار گزرتا۔

گاج (1-56)۔ مٹ (جالی کی طرح کا باریک کپڑا۔

گاو (1-56)۔ مٹ (تھمٹ ۲) تیل یا شربت کے نیچے بیٹھا ہوا میل۔ نیچے کا

گلا اور کڑھا تیل وغیرہ۔

گاو بیٹھنا۔ تھمٹ کا نیچے بیٹھ جانا۔

گادا۔ (1-56)۔ مٹ (جھنڈا، جھانڈا، مٹوں اور جڑوں، گیتھوں اور بڑکی

قرب قرب تیار فصل۔

گادنا۔ (1-56)۔ مٹ (دانا، ٹھونڈنا، بھرننا۔ بیچھنا۔

گادسی۔ (1-56)۔ مٹ (پودا یا گدی۔ گدلا۔

گاڈ۔ (God) (1-56)۔ مٹ (خدا۔ الخور۔ اللہ تعالیٰ۔

گاڈر۔ (1-56)۔ مٹ (بھیڑ۔

گاڈر۔ (Gardner) (1-56)۔ مٹ (لوہے کا بڑا شہتیر۔

گاڈرو۔ (1-56)۔ مٹ (ایک منتر جس سے سانپ کے زہر کا اثر

دور ہو جاتا ہے ۲) طاری سانپ پالنے والا۔

گار۔ (1-56)۔ مٹ (کرنے والا۔ مرکبات میں لاسحق کے طور پر آتا ہے۔ جیسے

مکہ گار ۲) ستم گار۔

گار۔ (1-56)۔ مٹ (اولا۔ نالا۔ پالا ۲) ایک سفید پتھر (رق)

گارا۔ (1-56)۔ مٹ (گدھی ہوئی مٹی جس سے ایشیں چھنے یا لپائی

کرتے ہیں ۲) ایک رنگی کانام۔

گار اہنا۔ گارا کرنا۔ مٹی کو گدھنا۔ مٹی میں پانی ملانا

گار اگانا۔ گارا راگ گانا، لمبی چوڑی کہانی سنانا۔

گارو۔ (Guard) (1-56)۔ مٹ (سپاہیوں کی چھوٹی ٹولی پہرہ دار

سنتری ۲) سپاہیوں کے رہنے کی جگہ چوکی۔

گارڈر۔ (Guard) (1-56)۔ مٹ (محافظ۔ پہرہ دار۔ ریل

گارڈی کانگرا۔

گارڈن۔ (Garden) (1-56)۔ مٹ (باغ۔ گلستان۔

چمن۔ گلزار۔ پھولاری۔

گارڈن پارٹی۔ (Garden Party) وہ ضیافت جو کسی باغ

میں دی جائے اور اس میں پھل اور چائے وغیرہ کا انتظام ہو۔

گارڈنر۔ (Gardener) (1-56)۔ مٹ (باغبان۔

گارڈینیا۔ (Gardenia) (1-56)۔ مٹ (ایک

تھوڑی جوعام طور پر مکان یا باغ کی باڑھ کے کام آتی ہے۔

گارڈین۔ (Guardian) (1-56)۔ مٹ (مذمومہ شخص جو کسی نابالغ

کی ذات یا جائیداد یا دونوں کا محافظ ہو ۲) سرپرست۔ نگران۔

گارنٹی۔ (Guarantee) (1-56)۔ مٹ (لاگ ۱)۔ مٹ (ذمہ داری ضمانت

گاڑا۔ (1-56)۔ مٹ (س ۱)۔ مٹ (بندوبست کی گولی ۲) کہیں گاہ گھات کی

جگہ ۳) وہ لوگ جو کہیں گاہ میں بیٹھیں (م) گاڑنا۔ مصدر سے فعل

ماضی (۱) بہت بڑی گاڑی (۲) گاڑھا (بق)

گاڑا بھٹانا۔ گاڑے بھٹانا۔ (۱)۔ مٹ (پوشیدہ جگہ کسی کناک میں بھٹانا تاک

گاڑا بیٹھنا۔ گاڑے بیٹھنا۔ (۱)۔ مٹ (مجاہدہ گھات گانا۔ شکاریوں کا گھات

میں بیٹھنا ۲) چوروں ڈاکوؤں یا قسمن کی گھات میں بیٹھنا۔

گاڑنا۔ (1-56)۔ مٹ (مٹھونکا ۲) کسی چیز کا زمین میں دفن کرنا۔ دفنانا

(۳) آگ کو رکھ کے نیچے دبانا ۴) پودا لگانا۔

گاڑھ۔ (1-56)۔ مٹ (مصیبت۔ مشکل۔ دشواری ۲) (مذمومہ) کرگہ

کپڑا بننے کا کرگھا۔

گاڑھ پڑنا۔ (1-56)۔ مٹ (مصیبت پیش آنا۔ مشکل پڑنا۔

گاڑھا۔ (1-56)۔ مٹ (صف ۲) موٹا دروازہ ۲) غلیظ۔ پلٹا کی ضد جیسے گاڑھا

دودھ ۳) چالاک ۴) ایک قسم کا موٹا کپڑا۔ کھڑوہ ۲) لڑائی کا مست باقی

(۲) گہرا۔ دلی جہانی ۲) مشکل۔ سخت۔ دشوار۔

گاڑھا پردہ۔ (1-56)۔ مٹ (گہرا پردہ۔

گاڑھا پسینہ۔ (1-56)۔ مٹ (محنت و مشقت۔

گاڑھا پن۔ (1-56)۔ مٹ (کثافت۔ موٹا ہونا۔

گاڑھا ڈھوتر۔ (1-56)۔ مٹ (معمولی موٹا کپڑا۔

گاڑھا وقت۔ (1-56)۔ مٹ (مشکلات کا زمانہ۔ مصیبت کا وقت۔

گاڑھے پسینے کا پسینہ۔ (1-56)۔ مٹ (محنت اور مشقت کی کمائی

گاڑھے پن۔ زبردست ہیں۔ غالب ہیں۔ بڑھ کر ہیں ۲) خوب نفع ہے۔

گاڑھی۔ (1-56)۔ مٹ (صف ۲) دروازہ ۲) غلیظ۔ پلٹا کی ضد ۳) دلی

جانی ۴) مشکل۔ دشوار۔

گاڑھی چھٹنا۔ (1-56)۔ مٹ (جھنگ کا خوب گاڑھا چھٹانا جانا ۲) (مجازاً) آپس

میں خوب میل جول کرنا۔ کمال محبت ہونا ۳) نے لکھنے اور مذاق میں

ایک دوسرے کو سخت سست کہنا ۴) جھنگ کی کرفشتہ میں ہونا۔

گاڑھی دوستی۔ (1-56)۔ مٹ (بہت زیادہ میل جول بہری یاری۔

گاڑھی کمائی۔ (1-56)۔ مٹ (وہ مال جو کمال محنت و مشقت سے حاصل

کیا گیا ہو ۲) سست

گاڑھے پسینے کی کمائی۔ (1-56)۔ مٹ (وہ کمائی جو بڑی محنت اور مشقت

سے تھائی گئی ہو۔

گاڑھی - (گاڑھی، ۵) - مرثا، اسباب لادنے یا سوار ہونے کی پیسے دار چیز جھپٹا۔ پہلی مرتبہ - مخم - تانگر قین وغیرہ (۲) ریل گاڑھی - موٹر۔
 گاڑھی بان - گاڑھی وان (۱۶) - منہ کو چرمان - گاڑھی چلانے والا۔
 گاڑھی پھیر - (۱۷) صف، بہت سا - بہت زیادہ - آت گت۔
 گاڑھی بھرا آشتانی بوجھ راتا - (۱۶) - مثل معمولی سی رشتہ داری بہت زیادہ دوستی سے بہتر ہے۔
 گاڑھی بھرا راستہ - (۱۶) - منہ اتنا راستہ جس میں سے گاڑھی نکل جائے - چوڑا سا راستہ۔
 گاڑھی جو تانا - (۱۶) - محاورہ، کبھی وغیرہ میں گھوڑے کو چوڑنا۔
 گاڑھی چلانا - (۱۶) - محاورہ، گاڑھی ہانکن۔ کو چوال کرنا (۲) گاڑھی کو کرانے پر دینا باخود چلانا۔
 گاڑھی چھوڑنا - (۱۶) - محاورہ، ریل کا اسٹیشن سے رواد ہونا۔
 گاڑھی خانہ - (۱۶) - منہ، گاڑیاں رکھنے کی جگہ - بچی خانہ۔
 گاڑھی دیکھ کر پاؤں چھوڑتے ہیں - (۱۶) - مثل، آرام کے لیے بہانہ جب کوئی خود بہت دکرسے اور دوسروں کے سہارے چلے کرتے ہیں۔
 گاڑھی سا ڈبل کھل جانا - سوتے آدمی کا ڈبلا ہوجانا۔
 گاڑھی کاٹنا - (۱۶) - محاورہ، ٹرین میں کوئی ڈبہ الگ کرنا (۲) گاڑھی سے مال چوری کر لینا۔
 گاڑھی کھینچنا - (۱۶) - محاورہ، رکنتا، کہنے کا بوجھ کسی کام کی ذمہ داری اپنے سنبھالنا۔
 گاڑھی لیٹ، ہونا - (۱۶) - محاورہ، گاڑھی کا وقت مقررہ پر نہ پہنچنا۔
 گاڑھی ہانکنا - (۱۶) - محاورہ، گاڑھی کے جالور کو چلانا۔
 گاڑ - (۱) - منہ، ایک قسم کی قینچی (۲) - شیع کا گل کترنے کی قینچی گل گیر، ہری گھاس۔
 گاڑ - (Gauze) (۱) - ایک (۱) - منہ، سوتی دھاگوں سے بنا ہوا کپڑا۔
 گاڑ - (۲) - منہ، کپڑے دھونے والا - دھوبی۔
 گاف - (۱) - منہ، ایک حرف کا نام (۲) - بیہودہ باتیں - بھواس - حد سے زیادہ بڑھ جانا۔
 گاف - (Golf) (۱) - ایک (۱) - منہ، ایک مغربی کھیل جو میدان میں ہاکی ٹاکری اور چھوٹی گیند سے دو آدمی کھیلتے ہیں۔
 گاگر - (۱) - منہ، مٹی بادھات کا گھڑا - مٹی کا وہ برتن جس میں شربت بھر کر منہ پر سرخ کپڑا اور پھولوں کے ہار ڈال کر مزاروں پر چڑھاتے ہیں۔
 گال - (۱) - منہ، رخسار (۲) - ایک قسم کا تمباکو (۳) - گفتگو - باتیں (۴) - لقمہ گھونٹ (۵) - اندک کی مٹھی جو کبھی میں ڈالیں - (۴) - روٹی کا ٹکڑا۔
 گے، (۱) - منہ، گالی۔
 گال بجانا - (۱۶) - محاورہ، منہ سے جھم جھم کی آواز نکالنا (۲) - بیہودہ بکھار، ڈینگ مارنا۔
 گال پر گال چڑھ جانا، چڑھنا - (۱۶) - محاورہ، موٹاپے سے گالوں کا پھول جانا (۲) - بہت موٹا ہونا۔
 گال جھلکانا - گال بجانا - (۱۶) - محاورہ، گالوں میں ہوا بھر کر نہیں اڑنا کرنا

(۱۶) - رنجیدہ ہونا - غصہ کرنا - منہ بجانا۔
 گال بچک جانا - (۱۶) - محاورہ، گالوں کا بیٹھ جانا۔
 گال توڑنا - گال کاٹنا - کسی کا گال مسکنا - گال میں جلی لینا۔
 لینا کہ گال میں دانت کا نشان چڑ جائے۔
 نقصان پہنچانا۔
 گال بجانا - (۱۶) - محاورہ، منہ چھلانا۔
 گال سے گال جھڑانا ہونا - (۱۶) - محاورہ، دسل میں ہم آغوش ہونا۔
 گال کرنا - (۱۶) - محاورہ، زبان درازی کرنا (۲) - گالی دینا۔
 گال نیلے کرنا - (۱۶) - محاورہ، زیادہ بوسوں سے گالوں کا نیلا ہوجانا۔
 گال میں جاول بھرنا - (۱۶) - محاورہ، طعن و طنز سے باتیں کرنا۔
 گال والا جھینٹے - مال والا ہارے۔
 گال والا درازے آگے بھلے مانس کو خاموش ہونا پڑتا ہے۔
 چالاک جھوٹا آدمی سچے کو جھٹلا دیتا ہے۔
 گال - (۱) - منہ، کبچرہ - گالا۔
 گالا - (۱) - منہ، دھنی، ہونٹی روٹی کا چھوٹا سا گچھا (۲) - برف کی مانند سفید۔
 گالا سا - (۱) - منہ، فعل، روٹی کی مانند ملائم (۲) - برف کی مانند سفید۔
 بہت زیادہ سفید۔
 گالا سے پال - (۱۶) - صف، سفید پال۔
 گالے (کرنا، بھانا - (۱۶) - محاورہ، دھکی اور صاف کی ہونٹی روٹی کے گولے بنانا۔
 گالے ڈوبیں - پتھر تریں - (۱۶) - مثل، جھوٹا آدمی سچا ثابت ہو جائے اور سچے کو جھوٹا بنا دیا جائے۔
 ایمان دار کا نقصان ہوا وہ بے ایمان کا فائدہ۔
 کینے کی عزت ہو جائے اور شریف کی ذلت ہو۔
 گالہم گولج - (۱) - منہ، گلی، بوج، (۲) - منہ، گالی گفتار۔
 گالہم دہی۔
 گالینا - (۱) - منہ، گلی، گالانا، بچھلانا۔
 گالو - (۱) - منہ، گلو، (۲) - منہ، باتوں، بکواس۔
 گالی - (۱) - منہ، گالی، (۲) - منہ، دشنام۔
 گالی جڑھانا - (۱۶) - محاورہ، ایسا کہنا جس سے کسی اور کو رشتہ بدتا ہو۔
 گالی دینا - (۱۶) - محاورہ، دشنام دینا۔
 گالی دیے سے گولہ گالی لے۔ (۱۶) - مثل، بڑی بات کوئی بھی نہیں سہارتا۔
 گالی کھانا - (۱۶) - محاورہ، دشنام سننا۔
 گالی کھنا - (۱۶) - منہ، گالی گولج۔
 گالی کھنا - (۱۶) - محاورہ، گالی دی جانا۔
 گالیاں بکنا - (۱۶) - محاورہ، منہ میں منہ سے نکالنا۔
 گالیاں بجانا - (۱۶) - محاورہ، بڑا جھلکانا۔
 گالیاں بھڑکانا - (۱۶) - محاورہ، گالیاں دی جانا۔
 گالیاں دینا - (۱۶) - محاورہ، بدزبانی کرنا۔
 گالیاں سننا - (۱۶) - منہ، دشنام طرازی کرنا۔
 گالیاں سہانیاں - (۱۶) - مثل، معشوقوں یا پیاروں کی گالیاں جو اچھی معلوم ہوں۔

گالیاں گھڑ گھڑ کے دینا۔ ۱۶۔ محاورہ، نئی نئی گالیاں دینا۔ بنا بنا کر گالیاں دینا۔

گالیوں پر آنا۔ ۱۶۔ محاورہ، بڑا بھلا کہنے لگ جانا

گالیوں پر زبان کھولنا۔ ۱۶۔ محاورہ، گالیوں پر منہ کھولنا۔ گالیاں دینے لگنا۔

گالیوں کا جھاڑ باندھنا۔ ۱۶۔ محاورہ، گالیوں کی لڑچھاڑ کرنا۔ لگاتار گالیاں دینے جانا۔

گالیوں کی بھر مار۔ گالیوں کی کثرت۔ ۱۶۔ (مٹ) لگاتار بے شمار گالیاں۔

گام۔ ۱۶۔ (مٹ) قدم قدم کا فاصلہ (۳، گھوڑے کی ایک چال۔

گام زن۔ ۱۶۔ (مٹ) چلنے والا۔ تیز رو۔ تیز رفتار۔

گام فرسائی۔ ۱۶۔ (مٹ) تیز چلنا۔

گاچی۔ (گام، چم) ۱۶۔ (مٹ) ساز کا ایک ٹکڑا جو گھوڑے کی دم میں لگایا جاتا ہے۔

گانا۔ (گانا، ۵)۔ (مٹ) الانا۔ راگ گانا۔ ترنم سے آواز نکالنا۔ بہ ہونہ باتیں کرنا۔ (۳) سراہنا۔ تعریف کرنا۔ اپنے مطلب کی بات کرنا۔

۱۶۔ مذراگ۔ نغمہ۔

گانا بجانا۔ ۱۶۔ (مٹ) راگ رنگ۔ نغمہ سرد۔

گانا روناس کو نہیں آنا۔ ۱۶۔ مثل، ایسی باتیں سب جانتے ہیں۔

گانا بھننا۔ گانٹھ بنا۔ ۵۔ (مٹ) ۱۶۔ مثل، ایسی باتیں سب جانتے ہیں۔

گانٹھ۔ ۱۶۔ (مٹ) گرہ (۲) جوڑ بند (۳) گھوڑی دم، جڑا دھوا دت، نفاق، بیزیر (۴) عہد پیمان، قول و قرار (۵) ہاتھ پاؤں اور انگلیوں کے جوڑ گتے اور بانس وغیرہ کی گرہ۔

گانٹھ اٹھڑنا۔ ۱۶۔ محاورہ، جوڑ بٹل جانا۔

گانٹھ باندھنا۔ ۱۶۔ محاورہ، گرہ دینا (۲) یاد رکھنا (۳) عقد باندھنا نکاح کرنا۔

گانٹھ چرنا۔ ۱۶۔ محاورہ، گرہ لگنا (۲) کان بن ہونا (۳) طالم کھانے کا بکتے پکتے بستہ ہو جانا۔

گانٹھ جوڑنا۔ ۱۶۔ محاورہ، نکاح کرنا۔ بیاہ کرنا۔

گانٹھ دار۔ ۱۶۔ صفت، گراں رکھنے والا۔

گانٹھ دینا۔ ۱۶۔ محاورہ، گانٹھنا۔ گرہ دینا۔ گرہ لگانا۔

گانٹھ ڈالنا۔ ۱۶۔ محاورہ، کسی چیز میں گرہ ڈال دینا۔

گانٹھ سے جانا۔ ۱۶۔ محاورہ، ذاتی نقصان ہو جانا۔ اپنی جیب سے روپیہ نکل جانا۔ اپنے پاس سے خرچ ہو جانا۔

گانٹھ کا۔ ۱۶۔ صفت، اپنا، ذاتی۔ اپنے پاس کا۔

گانٹھ کا پورا۔ ۱۶۔ صفت، دولت مند۔ مالدار (۲) عیار۔ جالاک۔ مطلب کا لگا۔

گانٹھ کا پورا عقل کا اندھا۔ ۱۶۔ مثل، بہ قوت مالدار جو سستی چیز بیچنے دا مول خریدے، احمق دولت مند جو جلد غریب میں آجائے۔

گانٹھ کا پیسہ۔ ۱۶۔ مذم ذاتی روپیہ۔ اپنا روپیہ۔ سچی رقم۔

گانٹھ کا دید سے پرینچ میں نہ پڑے۔ ۱۶۔ مثل، ضامن بننے سے نقتہ نہ تہتر ہے۔

گانٹھ کا دینا اور لڑائی مول لینا۔ ۱۶۔ مثل، اپنا نقصان برداشت

کر کے جھگڑا مول لینا۔ پاس سے رقم سے کر دشمنی خریدنا۔

گانٹھ کاٹنا۔ ۱۶۔ محاورہ، جیب کرتنا۔ ٹھکانا۔

گانٹھ کا کھونا۔ ۱۶۔ محاورہ، اپنی گرہ کار روپیہ ضائع کرنا۔

گانٹھ کرتا۔ ۱۶۔ صفت، جیب کرتنے والا جیب کرتا

گانٹھ کرتنا۔ ۱۶۔ محاورہ، جیب کاٹ لینا (۲) جڑانا (۳) غبن کرنا۔

گانٹھ کٹنا۔ ۱۶۔ محاورہ، جیب کاٹ جانا (۲) جیب سے روپیہ چوری ہونا۔ ٹھکانا جانا۔

گانٹھ کرنا۔ ۱۶۔ محاورہ، اتفاق کرنا۔ سازش کرنا (۲) اپنی جیب میں روپیہ رکھنا (۳) جمع کرنا۔ جوڑنا۔

گانٹھ کھولنا۔ ۱۶۔ محاورہ، گرہ کھولنا (۲) دکھا دینا، کینہ در کرنا۔ صلح صفائی کرنا (۳) باخبر کرنا۔ خوب فریج کرنا۔

گانٹھ گھسیلا۔ ۱۶۔ (مٹ) گرہ دار۔ بہت سی گرہوں والا (۲) مضبوط۔

گانٹھ گھسوں سے گٹھا ہوا۔

گانٹھ گرہ میں کچھ نہ ہونا۔ ۱۶۔ محاورہ، بالکل مفلس ہونا۔ پاس کچھ نہ ہونا۔

گانٹھ گرہ میں نہ ہونا۔ ۱۶۔ محاورہ، پاس کچھ روپیہ پیشہ ہونا۔

گانٹھ لینا۔ ۱۶۔ محاورہ، قبضہ میں کر لینا (۲) ہم خیال کرنا۔ ملانا موافق کر لینا۔

گانٹھ میں باندھنا۔ ۱۶۔ محاورہ، نصیحت کی بات یاد رکھنا۔ عبرت حاصل کرنا (۲) اپنے قبضے میں کر لینا۔

گانٹھ میں بندھنا۔ ۱۶۔ محاورہ، سب خرچ کر ڈالنا۔

گانٹھ میں رکھنا۔ ۱۶۔ محاورہ، نقدی پٹے رکھنا۔ اپنی جیب میں رکھنا۔ اپنے قبضے میں رکھنا۔

گانٹھ میں نہ رہے تو نہ رہے نہیں تو خر ہے۔ ۱۶۔ مثل، اگر آدمی کے پاس دولت ہے تو وہ سب سے دانا اور عقلمند ہے۔

در نہ ہونے سے ہوس ہے۔

گانٹھ نہ مٹھی، پھر پھر طائی آٹھی۔ ۱۶۔ مثل، پاس تو کچھ نہیں خرچ کرنے کو بھی چاہتا ہے۔

گانٹھ ٹھا۔ ۱۶۔ (مٹ) ۱۶۔ (مٹ) گرہ دار صفت۔ (مٹ)۔

گانٹھ ٹھکانا۔ (گانٹھ، نا) ۵۔ (مٹ) گرہ دینا۔ باندھنا (۲) جوڑنا۔ مرت کرنا (۳) خیال باندھنا (۴) ملانا۔ سازش کرنا (۵) قابو کرنا۔

گانٹھی۔ (گاں، ٹھی) ۱۶۔ (مٹ) گانٹھ۔

گانٹھا۔ گانٹھا۔ (مٹ) گاں۔ گاں۔ (مٹ) ۱۶۔ (مٹ) گھنگ کا لبادا۔ ایک نشہ دار درخت کا نام جس کے بیج حالم میں رکھ کر پیتے ہیں۔

گانٹھنا۔ گانٹھنا۔ (مٹ) نا۔ نا۔ گانٹھنا، (مٹ) ۵۔ (مٹ) دل ڈالنا۔

گانٹھوں کی نہیں خراب کرنا۔

گانٹھ کا دم۔ ۱۶۔ (مٹ) گانٹھ کا کش۔ گانٹھ کا دھواں۔

گانٹھ والا۔ ۱۶۔ (مٹ) گانٹھ پینے والا۔ گانٹھا پینے والا۔

گانٹھا والا۔ (مٹ) (مٹ) ۱۔ (مٹ) علم موہتی کے سات سروں میں سے تیسرا سرو۔

سوراخ کرنا۔
 گاگھسی (گال، سی، ۵۱-۱۰۱) مثلاً لوہے کا پھل جو تیروں لگاتے ہیں۔
 گاگھن (گال، گن، ۵۱) مثلاً ایک قسم کا چھوڑا۔ ڈوبل۔ وہ چھوڑا جس کا منہ اوپر کی طرف نہ ہو۔
 گاگول (۵۱-۵۲) مثلاً گاگول۔ موضع۔ دیہہ۔ بستی۔
 گلنے والے کا منہ نہیں رہتا اور ناپختہ والے کا پیر (۱۱) نیش، جس کی جو عادت ہوتی ہے وہ اکثر جاری رہتی ہے۔
 گاو (۱۰) مثلاً (۱) میل (۲) گاؤں (۳) ایک برج کا نام۔
 گاؤں واری (۱۰) مثلاً گھر کا بلا ہوا میل۔ موٹا تازہ میل۔
 گاؤں نشت (۱۰) صفت، مخزومی (۲) آسمان۔
 گاؤں بنگ (۱۰) مثلاً زرافہ۔
 گاؤں پیکر (۱۰) صفت، گلے کے ہون کا، فرید دل کے گزر کا نام۔
 گاؤں کلیہ (۱۱) مثلاً اور بلا کلیہ جس کو بس پشت لگا کر بیٹھے ہیں۔
 گاؤں چشم (۱۰) مثلاً بڑی بڑی آنکھوں والا (۲) ایک انگریزی جھول طینتی۔
 گاؤں خراس (۱۰) مثلاً کھوکھو کا میل۔
 گاؤں خورد کوٹنا (۱۰) مجاورہ (۱۱) مجاورہ (۱۲) جہاں پونا۔ ضلع پونا۔
 گاؤں دم (۱۰) صفت، مخزومی (۲) تری، قرنا۔
 گاؤں زبان (۱۰) مثلاً ایک مشہور دوا، جس کے پتوں پر گائے کی زبان کی طرح کے اُبھار ہوتے ہیں (۲) ایک قسم کا لمبو ترا پٹھا جو تنور میں پکایا جاتا ہے۔
 گاؤں زرزین (۱۰) مثلاً سونے کا پیار جس کی شکل گائے جیسی ہوتی ہے (۲) گاؤں سامری۔
 گاؤں زمین (۱۰) مثلاً قدیم خیال کے مطابق وہ میل جس کے ایک سینک پر زمین رکھی ہوتی ہے۔
 گاؤں زہرہ (۱۰) مثلاً گونا پتھر (۲) وہ پتھر جو گائے کے پتے سے نکلتی ہے اور دوا کے طور پر استعمال ہوتی ہے۔
 گاؤں سامری (۱۰) مثلاً وہ سونے کا پتھر جو حضرت موسیٰ کے زمانہ میں سامری نے بنایا تھا۔
 گاؤں عنبر (۱۰) مثلاً وہ سمندری گائے جس کی نسبت لوگ خیال کرتے ہیں کہ وہ عنبر نکلتی ہے۔
 گاؤں فلک (۱۰) مثلاً گاؤں دروں۔ برج ثور۔
 گاؤں گھسی (۱۰) مثلاً گائے کو ذبح کرنا۔ ذبح گائے۔
 گاؤں گوبان دار (۱۰) مثلاً جنگل گالوں کا ایک قسم۔ نر کے گوبان ہوتا ہے۔
 گاؤں گاہ (۱۰) گاؤں سامری، براہ مہر (۲) گاؤں۔ (۱) مقولہ، طبیوں کا خیال ہے کہ گائے کا گوشت کسی کبھی، مچھل، براہ ایک بار اور بکری کا گوشت ہر روز کھانا چاہیے۔
 گاؤں ماہی (۱۰) مثلاً ایک جانور جو نصف مچھلی اور نصف بیل ہے۔ ہندوؤں کے عقیدے کے مطابق زمین اس کے سینک پر کھڑی ہے۔
 گاؤں ہیش (۱۰) مثلاً بھینس۔

گادون (گاؤں، اق، ۱۰) مثلاً گاؤں، گائے والی۔
 گاہ (۱۰) گاہ۔ (۱) مثلاً وقت، سال (۲) جگہ۔ مقام۔ مکان (۳) بار۔ دفعہ۔ موقع (۴) کسی وقت کبھی۔
 گاہ بہ گاہ۔ گاہ گاہ (۱۰) مثلاً تبایں فصل، کسی کسی وقت (۲) جھوٹے ہمسرے۔
 گاہک (۱۰) گاہک (۱) مثلاً خریدار، مشتری۔
 گاہکی (۱۰) گاہکی (۱) مثلاً خریداری، طلبکاری۔
 گاہن (۱۰) گاہن (۱) مثلاً ہل چلاتے ہوئے کھیت کی گھاس دور کرنے کا ساراں۔
 گاہن (۱۰) گاہن (۱) مثلاً روتنا، اناج پر بیلوں کو بچھرانا، گھس اور اناج الگ الگ بوجھنے۔
 گاہے (۱۰) گاہے (۱) مثلاً کسی وقت۔
 گاہے گاہے (۱۰) گاہے گاہے (۱) مثلاً تبایں فصل، کبھی کبھار۔
 گاہے باشد کہ کوو کے ناداں (۱۰) مثلاً مقولہ، بچہ بھی غلطی سے ز غلط بر ہدف زند تیرے آ نشانے پر تیر مار دیتا ہے جب کوئی شخص اتنا قیہ صحیح بات کہہ دیتا ہے تو کہا جاتا ہے۔
 گاہے لولہ گاہے ماشہ (۱۰) مثلاً مقولہ، متلون مزاج شخص کے متعلق کہا جاتا ہے۔
 گاہے ماہے (۱۰) مثلاً تبایں فصل، مہینے بعد۔ مہینے میں ایک دفعہ (۲) کبھی کبھار۔ کبھی کبھی۔
 گاہیڈ (Guide) (گا۔ ۱) (۱) انگ۔ (۱) مہما۔ پتہ نوا۔ رہبر۔
 گاہنگ (۱۰) گاہنگ (۱) مثلاً گانے والی۔
 گاہن (۱۰) گاہن (۱) مثلاً گانگ کی تائیت۔ گانے والی۔
 گاؤں (Gown) (گا۔ ۱) (۱) انگ۔ (۱) مغربی وضع کا لمبا پیچہ۔ جبہ جو پادری عموماً اور ڈگری لینے والے طلباء اور وکلاء اور یونیورسٹی کے اراکین وغیرہ خاص موقعوں پر پہنتے ہیں (۲) مغربی عورتوں کا ایک لباس۔
 گائے (۱۰) گائے (۱) مثلاً مادہ گاؤں۔ گنو (کنایتاً، غریب بے حذر بے زبان۔
 گائے جئے۔ بیل کی دم پھیلنے (۱۱) مثلاً سنی دے اور حاسد کو صدہ کو۔
 گائے کا بھجاتے اور بھجیا کا گائے تلے کرنا (۱۱) مجاورہ (۱) حکمت عملی سے کام لیتا۔ تدبیر سے مطلب باری کرنا۔
 گائے کرنا۔ گائے ذبح کرنا۔
 گائے کو نئے سینک بھاری نہیں ہوتے (۱۱) مثلاً ماں باپ کو اولاد کی پرورش مشکل معلوم نہیں ہوتی۔ مالک کو اپنی چیز خواہ وہ تکلیف دہ کیوں نہ ہو۔ گوار نہیں کرتی۔
 گائے کی طرح کا نہیں (۱۱) مجاورہ (۱) بہت ڈرنا۔
 گائے نہ پھٹی۔ نیند آئے اچھی (۱۱) مثلاً جس کے پاس کچھ نہیں رہے فکری کی نیند سوتا ہے۔
 گائے (۱۰) صفت (۱) جس نے اپنی بکارت کھودی ہو۔ کنواری لڑکی

کا زنا کرانا۔

گائیتیری - دکا - بیت (ری، ۱۱ س، ۱۰۱) - مرث (مرث) - رگ وید کا ایک منتر۔
گائنگ - (س، صف) - منغی - گویا - گانے والا۔

گ - ب

گائیت (۱۰۱) - مذم - حمل - گبر (۳، ۱۲) - مرث (مرث) - گائے۔

گابا گیتھا - گاب - با - گجہ - بھا (۱۰۶) - مذم - تو نیک - گدیلا - روتنی دار - نرم بھجنا۔

گابڈ - رگ - بیت (۵۱) - صف (۱) - بے وقوف - ٹھس - کم عقل۔

گابڈا - (گب، دا، ۵۲) - صف (۲) - موٹا ناٹا - ٹیج و جیم - بھرا - پوا بیلن۔

گابڈر - (ف، ۱) - مذم - آتش پرست - آگ کی پوجا کرنے والا - زندگی کا پیرو۔

گابڈو - رگ - بیت (۵۲) - صف (۲) - مفرور - چکر (۲) - مالدار - دو لہند۔

گابڈو گبھرو - رگ - بیت (۵۲) - صف (۲) - فوجوان - فوجی (۲) - ۱۱ - مذم - دو لبیا - فوشہ۔

گابڈون - رگ - بیت (۱۱) - ا۔ ۱ - ر۔ ۱ - ایک قسم کا موٹا گبڑا۔
گابھانا - ۵۱ - مص (۱) - جھوٹا - کھونٹا - کھڑا (۲) - رگڑ لگانا - آکس لگانا۔

گابھوئی - (۱۰۶) - مرث (۱) - وہ زمین جو گاؤں کے ارد گرد ہو۔

گابڑلا - رگ - بیت (۱۱) - مذم - جھوٹے کے مانند پردار کا لاپرواہی جو گور میں تپے۔

گابھیللا - (۵۲) - صف (۱) - سخت چیز - سخت گولیاں - سخت گولیاں سے مرکب جیسے پاخانے کی۔

گابھیلے - (۱۰۵) - مذم - سُدے جو قبض کی وجہ سے انتڑیوں میں پڑ جاتے ہیں۔

گابھیلن - رگ - بیت (۱۱) - مذم - ایک رجم ہونے کی محبت۔

گ - پ

گائپ - (۱۰۵) - مرث (۱) - جموٹی بات - افواہ (۱۱) - شیخی - ڈینگ (۳) - افسانہ (۳) - بھاس - لغویات۔

گائپا - (۱۱) - مجاورہ - جموٹی بات مشہور کرنا - جموٹی باتیں کرنا۔

گائپا - (۱۱) - مجاورہ - جموٹی بات مشہور کرنا - جموٹی باتیں مشہور ہونا۔

گائپا - (۱۱) - صف (۱) - کہیں ہانکنے والا (۲) - ڈینگ - ماننے والا۔

گائپا - (۵۱) - مرث (۱) - سنی، دل لگی باتیں جموٹی باتیں۔

گائپا - (۱۱) - مجاورہ - جموٹی باتیں مشہور کرنا۔

گائپا - (۱۱) - مجاورہ - جموٹی باتیں مشہور کرنا۔

گائپا - (۵۲) - صف (۱) - چھپا ہوا پوشیدہ - منغی (۲) - اندھا۔

گائپ - (۵۲) - صف (۲) - خاموشی - چپ چاپ (۲) - خاموشی سے

گائپ - منغی طور سے (۱۱) - لاکھوں کا ایک کھیل۔
گائپ - چپ کی مٹھائی (کے لڈو) - ایک قسم کی مٹھائی جو منہ میں رکھنے

ہی لعل جاتی ہے۔
گائپ - چپ کی مٹھائی کھانا (۱۱) - مجاورہ - گائپ - چپ کے لڈو کھانا - خاموش رہنا۔ منہ سے نہ بولنا۔

گائپا - رگ - بیت (۱۱) - مذم - دھوکا - فریب۔

گائپا - (۱۱) - مجاورہ - فریب دینا - دھوکا دینا۔

گائپا - (۱۱) - مجاورہ - دھوکا کھانا - فریب میں آنا۔

گائپا - رگ - بیت (۱۱) - مذم - حلیہ کھانے اور لنگھنے کی آواز (۲) - بکھڑا - باخراط۔

گائپا - (س، صف) - پوشیدہ چھپا ہوا - در پردہ - غائب - محفوظ - بچا ہوا۔

گائپا - (۱۰۵) - مرث (۱) - بالائی آمدنی - وہ آمدنی جو ظاہر نہ ہو - رشتہ

گائپا - (۵۲) - مذم - غیبی طور پر خیرات۔

گائپا - (۱۱) - مجاورہ - چھپا ہوا پوشیدہ کرنا۔

گائپا - (۱۰۵) - مرث (۱) - عجبی - حار (۲) - وہ حارس کا نشان بہ ظاہر

رو دکھائی نہ دے (۲) - طعنہ - طعن۔

گائپا - (۱۰۵) - مذم - چھپا ہوا - وہینہ۔

گائپا - (۱۱) - مجاورہ - چھپ جانا - غائب ہوجانا۔

گائپا - (۱۰۵) - مرث (۱) - وہ تیار جو دستی چھڑی میں منغی ہوتی ہے۔

گائپا - رگ - بیت (۱۱) - مرث (۱) - بے ہودہ بات - مص - بھاس۔

گائپا - (۱۰۵) - مرث (۱) - گدگد غلط - حرام بات سمجھ میں نہ آئے۔

گائپا - (۱۰۵) - مرث (۱) - بے ہودہ باتیں - ماہیات کہیں

گائپا - (۱۰۵) - مرث (۱) - بھاس - بھاس ہونے کے لیے گند کو ہاتھ میں لے لینا۔

گائپا - (۱۰۵) - مرث (۱) - دیکھنے کا گپ - جلدی جلدی۔

گائپا - (۱۰۵) - مرث (۱) - گول ٹھیکرا۔

گائپا - (۱۰۵) - مرث (۱) - گدگد - فار کھوہ چھینے کی جگہ۔

گائپا - (۱۰۵) - مرث (۱) - چھپانا - ریشم زری کے تاروں کا ٹکڑا۔

گائپا - (۱۰۵) - مرث (۱) - سر کے سامنے کے ڈھکے ہونے والے جو عورتیں زینت

کے لیے آٹا دیتی ہیں۔

گائپا - (۱۰۵) - مرث (۱) - بھاس - پاپا - فلفل باتیں کرنے والا - جھوٹا - شیخی مار۔

گ - ت

گائت - (۱۰۵) - مرث (۱) - حرکت - چال - رفتار (۲) - حالت - کیفیت - طرز (۲) - کرنا

گرم - مرد سے کے حملانے یا دفنانے کی رسم (۳) - مار پیٹ - زد و کوب (۵)

گے - تار - رزم - نمبر (۲) - ایک قسم کا ناچ (۲) - خوشی - فرحت (۱۸) - جلوس (۸)

گالاکھ - بھاری (۱۰) - سلیقہ - ترکیب - مثال - مثالی (۱) -

گت - بھانا - (۱۱) - مجاورہ - ساز بھانا - کوئی لے چھپنا - ساز کا ایک خاص

گٹھلی۔ دگ۔ مٹی۔ لی، ۵۶۔ صغ، گٹھلی کی تانیت۔ گرہ والی۔
 گٹھ۔ گٹھ دار۔
 گٹھی۔ گٹ۔ ٹی، ۵۶۔ ۱۔ مٹ، نیل کا مربع کاٹا ہوا ٹیکڑا ۲، مٹی کا ڈھیلا۔
 گٹھی۔ گٹ۔ ٹی، ۵۶۔ ۱۔ مٹ، مچھری۔ ریل جس پر تانکا لپٹا ہوتا ہے۔
 ۲، جگمگ ٹھیکری۔

دولہا دلہن (۳) دو آدمیوں کا ایک دل ہونا، دوستی۔
 گٹھ توڑ باندھنا۔ ۱۶۔ محاورہ) دولہا دلہن کے انچوں کو گرہ لگانا۔ بیاہ کرنا۔
 نکاح کرنا۔ عقد باندھنا۔ دوستی کرنا۔
 گٹھ گٹ۔ گٹھ لٹا۔ ۱۵۔ ۱۔ مذ، حبیب کتا۔ اچھا۔ ٹھگ۔
 گٹھا۔ گٹھ بٹھا، ۵۶۔ ۱۔ مذ، کسی چیز کا بڑا ٹکڑا۔ بوجھ (۲)۔ بچھ ۳، پیاز لہسن
 کی گٹھ (۳)۔ تین گڑھ کا پیمانہ۔ جریب کا بیسواں حصہ۔
 گٹھا۔ دگ۔ مٹھا، ۵۶۔ ۱۔ مٹ، گہ۔
 گٹھانا۔ دگ۔ مٹھانا، ۵۶۔ ۱۔ مص، سلوانا۔ پیوند لگانا۔ چرٹے کے سامان
 کی مرمت کرنا۔

گ۔ ج

گج۔ گج۔ گج۔ ۶۔ ۱۔ مذ، ہاتھی۔ نیل۔
 گج بال۔ ۵۶۔ ۱۔ مذ، ہاتھی۔ ہاتھی جلانے کا ہتھیار۔
 گج پال۔ ۵۶۔ ۱۔ مذ، نیلیاں۔ جہاوت۔
 گج پٹی۔ ہاتھیوں کا جوار (۲)۔ ہاتھی کا مالک (۳)۔ سب سے بڑا ہاتھی، بہ جہاوت نیلیاں۔
 گج دنت۔ ۵۶۔ ۱۔ مذ، ہاتھی دانت۔
 گج گھرات۔ ۵۶۔ ۱۔ مذ، نیل بان (دق)۔
 گج راج۔ بہت بڑا ہاتھی۔ ہاتھیوں کا سردار۔
 گج گاہ۔ ۵۶۔ ۱۔ مذ، سرا۔ گاؤں کی وہ گھنٹہ جو ہاتھی کے سر کے دونوں طرف بچاؤ
 کے لیے لٹکتے ہیں۔
 گج گھنی۔ ۵۶۔ ۱۔ مٹ، ہاتھی کی چال (۲)۔ شاندار ستانہ چال۔
 گج مٹی۔ ۵۶۔ ۱۔ مذ، مست ہاتھی (دق)۔
 گج موٹی۔ ۵۶۔ ۱۔ مذ، بہت بڑا موٹی، رہندوں کا خیال ہے کہ سب سے بڑا
 مٹی ہاتھی کی پیشانی سے لٹکتا ہے۔
 گج نال۔ بہت بڑی جگہ توپ۔ قلعہ ٹھکن توپ۔
 گجا۔ گ۔ ۵۶۔ ۱۔ مذ، پھوٹے کا ایک حصہ (۲)۔ ایک قسم کی مٹھائی۔ خرما۔
 بالوشاہی۔
 گج۔ دگ، جڑ، ۵۶۔ ۱۔ مذ، گٹھنے یا گٹھریال کی آواز۔ جار بکے۔ آٹھ بکے اور ہانچے
 گٹھنے پر چند مزے (۲)۔ صبح و صفاق کا وقت (۳)۔ گاجر کا مختلف (۴)۔ مٹیوں یا جو
 یا شیشہ دستند کیوں ملے ہوئے۔
 گج۔ گج۔ گٹھنے یا گٹھریال کا لگانا۔ سنا۔ صبح و صفاق کے وقت گٹھریال یا سنا (۲)۔
 صبح ہونا۔ بڑا کا ہونا۔
 گج۔ گج۔ گج۔ ۶۔ ۱۔ مذ، علی الصباح تڑکے۔ بہت سویرے۔
 گج بھت۔ گج بھتتا۔ ۵۶۔ ۱۔ مذ، کہ دکش میں سے نکال کر دوڑھا اور چاؤلوں میں
 پکانی ہوئی گاجر۔ گج بھلا۔
 گج بھتا۔ بنا۔ ۱۶۔ محاورہ) غلط ملکہ کرنا۔ اچھے بڑے کا ملادینا۔
 گجرا۔ (دق)۔ ۵۶۔ ۱۔ مٹ، پھولوں کا ہار۔ پھولوں کا زور جو عورتیں کلاں میں
 میں پہنتی ہیں (۲)۔ کلائی میں پہننے کا ایک قسم کا زیور (۳)۔ ایک قسم کا
 ریشمی کپڑا۔ مشروع۔
 گجرا ہار۔ ڈیرا گندھا ہوا پھولوں کا ہار (۲)۔ گلے میں پہننے والا سونے کا
 خوبصورت ہار۔
 گجری۔ دگ، ہدی، ۵۶۔ ۱۔ مٹ، کلائی میں پہننے کی موٹی سی چوڑی۔

گٹھا ڈ۔ ۵۶۔ ۱۔ مٹ، جوڑنا۔ ملانا (۲)۔ بنا۔ بنادوٹ۔ تعمیر (۳)۔ تدبیر مشورہ
 سازش (۴)۔ ملاوٹ۔ جوڑ۔
 گٹھا ڈ باندھنا۔ ۱۶۔ محاورہ) تعلق پیدا کرنا (۲)۔ انجمن بنانا (۳)۔ مشورہ کرنا۔
 گٹھائی۔ دگ۔ مٹھائی، ۵۶۔ ۱۔ مٹ، سلوائی۔
 گٹھا۔ ۱۔ گٹھ۔ (دق)۔ ۱۔ مذ، سرمایا۔ بونجی۔
 گٹھا۔ ۱۔ گٹھ۔ بٹھا، ۵۶۔ ۱۔ مذ، بڑی گٹھری۔ انہار۔
 گٹھری۔ گٹھ بڑی، ۵۶۔ ۱۔ مٹ، بچھ (۲)۔ مقدار۔ تعداد۔
 گٹھری باندھنا۔ ۱۶۔ محاورہ) متفرق چیزوں کو ایک جگہ جمع کرنا یا
 جمع کرنا۔
 گٹھری حلال لقمہ سردار۔ ۱۶۔ مٹ، کسی کی بہت بڑی چیز کو حلال
 جان کر خورد و خوراک کرنا۔ اور گٹھری سی چیز کو حرام سمجھ کر اس میں
 ایمان داری ظاہر کرنا۔
 گٹھری کر دینا۔ ۱۶۔ محاورہ) ہاتھ پاؤں باندھ کر یا توڑ کر ایک جگہ ڈال دینا
 کسی کو باندھ دینا۔ پوٹ بنا دینا۔
 گٹھری مارنا۔ ۱۶۔ محاورہ) لوٹنا حال مارنا جوڑی کرنا چرانا۔
 گٹھل۔ دگٹھ۔ ٹھل، ۵۶۔ ۱۔ مذ، بڑی گڑھ۔ بڑی گٹھ (۲)۔ گٹھی۔ خورد۔
 (۳)۔ بڑی گٹھلی (۴)۔ مص، گڑھ (۵)۔ سخت (۶)۔ جما ہوا۔ بستہ،
 گٹھل۔ گند (۸)۔ گند (۹)۔ گند (۱۰)۔
 گٹھل۔ گٹھلی، ۵۶۔ ۱۔ مٹ، پھیل کا بیج۔ تخم (۲)۔ گٹھی (۳)۔ گٹھ۔
 گٹھنا۔ گٹھ۔ نا، ۵۶۔ ۱۔ مص، سلوانا۔ پیوند لگانا (۲)۔ مل جانا۔ شریک ہونا (۳)۔
 سبنا۔ زینب دینا۔
 گٹھوانا۔ دگٹھ۔ دارنا (۲)۔ مص، جڑوانا۔ سلوانا۔
 گٹھوانسی۔ گٹھ۔ وال۔ سی، ۵۶۔ ۱۔ مٹ، جریب کے گٹھے کا بیسواں
 حصہ جو پانچ انچ ہوتا ہے۔
 گٹھوت۔ دگ۔ ٹھوت، ۵۶۔ ۱۔ مٹ، میل چول (۲)۔ سازش۔
 گٹھونڈ۔ دگ۔ ٹھونڈ، ۵۶۔ ۱۔ مٹ، تجویل۔ تجویل میں رکھی ہوئی امانت۔
 گٹھی۔ گٹھی، ۵۶۔ ۱۔ مٹ، گڑھ۔ گٹھ (۲)۔ بڑھ۔ بند۔
 گٹھیا۔ گٹھ۔ یا، ۵۶۔ ۱۔ مٹ، جوڑوں کے درمی ایک بیماری۔ بیج مفاسل
 گٹھیابی (۲)۔ انانج باندھنے یا روٹی رکھنے کی گٹھی۔
 گٹھیلا۔ دگ۔ ٹھیلا، ۵۶۔ ۱۔ مٹ، گڑھ دار۔ گٹھیوں والا (۲)۔
 مضبوط۔ سخت۔

گجھڑی۔ رگ۔ ہی، ۵۶۔ منٹ، گوجری، گوجری عورت۔
گجھڑی۔ رگ۔ ہی، ۵۶۔ منٹ، گوجری، گوجری عورت۔
گجھڑی۔ رگ۔ ہی، ۵۶۔ منٹ، گوجری، گوجری عورت۔
گجھڑی۔ رگ۔ ہی، ۵۶۔ منٹ، گوجری، گوجری عورت۔
گجھڑی۔ رگ۔ ہی، ۵۶۔ منٹ، گوجری، گوجری عورت۔

گ۔ د

گد۔ ۱۔ ۵۶۔ منٹ، زمین پر دے مارنے کی آواز۔
گدا۔ رگ۔ ۱۔ ۵۶۔ منٹ، آد پر تلے باپے درپے گرنے کی آواز، دنگا تار پلنے کی آواز۔
گدا۔ رگ۔ ۱۔ ۵۶۔ منٹ، آد پر تلے باپے درپے گرنے کی آواز، دنگا تار پلنے کی آواز۔
گدا۔ رگ۔ ۱۔ ۵۶۔ منٹ، آد پر تلے باپے درپے گرنے کی آواز، دنگا تار پلنے کی آواز۔
گدا۔ رگ۔ ۱۔ ۵۶۔ منٹ، آد پر تلے باپے درپے گرنے کی آواز، دنگا تار پلنے کی آواز۔

گجھڑی۔ رگ۔ ہی، ۵۶۔ منٹ، گوجری، گوجری عورت۔
گجھڑی۔ رگ۔ ہی، ۵۶۔ منٹ، گوجری، گوجری عورت۔
گجھڑی۔ رگ۔ ہی، ۵۶۔ منٹ، گوجری، گوجری عورت۔
گجھڑی۔ رگ۔ ہی، ۵۶۔ منٹ، گوجری، گوجری عورت۔
گجھڑی۔ رگ۔ ہی، ۵۶۔ منٹ، گوجری، گوجری عورت۔

گ۔ ج

گج۔ ۱۔ ۵۶۔ منٹ، گوجری، گوجری عورت۔
گج۔ ۱۔ ۵۶۔ منٹ، گوجری، گوجری عورت۔
گج۔ ۱۔ ۵۶۔ منٹ، گوجری، گوجری عورت۔
گج۔ ۱۔ ۵۶۔ منٹ، گوجری، گوجری عورت۔
گج۔ ۱۔ ۵۶۔ منٹ، گوجری، گوجری عورت۔

گد۔ ۱۔ ۵۶۔ منٹ، زمین پر دے مارنے کی آواز۔
گدا۔ رگ۔ ۱۔ ۵۶۔ منٹ، آد پر تلے باپے درپے گرنے کی آواز، دنگا تار پلنے کی آواز۔
گدا۔ رگ۔ ۱۔ ۵۶۔ منٹ، آد پر تلے باپے درپے گرنے کی آواز، دنگا تار پلنے کی آواز۔
گدا۔ رگ۔ ۱۔ ۵۶۔ منٹ، آد پر تلے باپے درپے گرنے کی آواز، دنگا تار پلنے کی آواز۔
گدا۔ رگ۔ ۱۔ ۵۶۔ منٹ، آد پر تلے باپے درپے گرنے کی آواز، دنگا تار پلنے کی آواز۔

گدہ پانا۔ (۱۱۔ محاورہ) رنج و غم سے بول نہ سکا (۲) خوش ہونا۔

گدڑ۔ (گدڑ۔ ۵۶) صفت (۱) ادا پکا۔ نیم پختہ (۲) مچھل جو پک جانے کے قریب ہو۔

گدڑانا۔ (گدڑ۔ ۵۶) صفت (۱) نیم پختہ ہونا۔ مچھل کا پک جانے کے قریب پہنچنا (۲) جوانی کا آغاز ہونا۔ جو بچہ پرانا۔

گدڑا ہٹ۔ (گدڑ۔ ۵۶) صفت (۱) مچھل کے پکنے کے قریب ہونے کی حالت۔

گدڑا یا۔ (گدڑ۔ ۵۶) صفت (۱) ادا پکا ادا پکا پکنے کے قریب۔

گدڑا یا ہوا بدن۔ (۱۶۔ مذ) جوانی میں بھرا ہوا بدن۔ گدشت سے خوب بھرا ہوا جسم۔

گدڑی۔ (گدڑی۔ ۵۶) صفت (۱) فقیروں کا مچھل جس میں بہت سے بوند لگے ہوئے ہوں۔ (۲) جرقہ (۳) وہ بازار جس میں ہر قسم کی چرائی چیزیں بکتی ہوں۔

گدڑی میں (لعل) لال۔ (۱۶۔ ضل) غریب گھرانے میں صاحب ہنرمندانوں میں لائق وہ ہنرمند جو اپنے کمال پر پہنچے ہو۔

گدڑیا۔ (گدڑیا۔ ۵۶) صفت (۱) گدڑی کی تصویر۔ چھوٹی گدڑی (۲) وہ شخص جو گدڑی پیٹنے سے (۳) بچے پرانے کپڑے پہننے والا (۴) خیمہ اور بزم کش کر رہنے والا۔

گدڑیا سیر، فقیر۔ (۱۶۔ مذ) گدڑی پہننے والا فقیر۔

گدڑ کا۔ (گدڑ کا۔ ۵۶) صفت (۱) مچھل کے کھڑے ہوا ڈنڈا۔ (۲) گدڑ کا کھڑا کھڑا۔ (۳) صفت (۴) گدڑا۔

گدڑ گدڑا۔ (گدڑ۔ ۵۶) صفت (۱) نرم۔ ملائم۔ پیلا۔

گدڑ گدڑا۔ (گدڑ۔ ۵۶) صفت (۱) ہنسنا۔ (۲) اُٹھانا۔ بھڑکانا۔ (۳) مذاق کرنا۔ (۴) شوق بڑھانا۔ گھوڑے کے پیٹ کو یاد لگانا۔ (۵) جست و نیش میں آئے۔

گدڑا ہٹ۔ (گدڑ۔ ۵۶) صفت (۱) گدڑی کا اثر۔

گدڑا سے وہاں تک جہاں تک ہنسی نہ آئے۔ (۱۶۔ ضل) دل لگی دینے سے جہاں تک ہنسی نہ آئے۔

گدڑی۔ (گدڑی۔ ۵۶) صفت (۱) جسم کے انگلیوں سے چھونے کے باعث ہنسی کی کیفیت (۲) جوش۔ شوق۔ (۳) ہنسی۔

گدڑی کرنا۔ (۱۶۔ محاورہ) انگلیوں کو بدن سے نکال کر ہنسانا۔ چھیڑنا۔

گدڑی گدڑا۔ (گدڑی۔ ۵۶) صفت (۱) گدڑی۔ (۲) گدڑی۔ (۳) گدڑی۔ (۴) گدڑی۔ (۵) گدڑی۔ (۶) گدڑی۔ (۷) گدڑی۔ (۸) گدڑی۔ (۹) گدڑی۔ (۱۰) گدڑی۔ (۱۱) گدڑی۔ (۱۲) گدڑی۔ (۱۳) گدڑی۔ (۱۴) گدڑی۔ (۱۵) گدڑی۔ (۱۶) گدڑی۔ (۱۷) گدڑی۔ (۱۸) گدڑی۔ (۱۹) گدڑی۔ (۲۰) گدڑی۔ (۲۱) گدڑی۔ (۲۲) گدڑی۔ (۲۳) گدڑی۔ (۲۴) گدڑی۔ (۲۵) گدڑی۔ (۲۶) گدڑی۔ (۲۷) گدڑی۔ (۲۸) گدڑی۔ (۲۹) گدڑی۔ (۳۰) گدڑی۔ (۳۱) گدڑی۔ (۳۲) گدڑی۔ (۳۳) گدڑی۔ (۳۴) گدڑی۔ (۳۵) گدڑی۔ (۳۶) گدڑی۔ (۳۷) گدڑی۔ (۳۸) گدڑی۔ (۳۹) گدڑی۔ (۴۰) گدڑی۔ (۴۱) گدڑی۔ (۴۲) گدڑی۔ (۴۳) گدڑی۔ (۴۴) گدڑی۔ (۴۵) گدڑی۔ (۴۶) گدڑی۔ (۴۷) گدڑی۔ (۴۸) گدڑی۔ (۴۹) گدڑی۔ (۵۰) گدڑی۔ (۵۱) گدڑی۔ (۵۲) گدڑی۔ (۵۳) گدڑی۔ (۵۴) گدڑی۔ (۵۵) گدڑی۔ (۵۶) گدڑی۔ (۵۷) گدڑی۔ (۵۸) گدڑی۔ (۵۹) گدڑی۔ (۶۰) گدڑی۔ (۶۱) گدڑی۔ (۶۲) گدڑی۔ (۶۳) گدڑی۔ (۶۴) گدڑی۔ (۶۵) گدڑی۔ (۶۶) گدڑی۔ (۶۷) گدڑی۔ (۶۸) گدڑی۔ (۶۹) گدڑی۔ (۷۰) گدڑی۔ (۷۱) گدڑی۔ (۷۲) گدڑی۔ (۷۳) گدڑی۔ (۷۴) گدڑی۔ (۷۵) گدڑی۔ (۷۶) گدڑی۔ (۷۷) گدڑی۔ (۷۸) گدڑی۔ (۷۹) گدڑی۔ (۸۰) گدڑی۔ (۸۱) گدڑی۔ (۸۲) گدڑی۔ (۸۳) گدڑی۔ (۸۴) گدڑی۔ (۸۵) گدڑی۔ (۸۶) گدڑی۔ (۸۷) گدڑی۔ (۸۸) گدڑی۔ (۸۹) گدڑی۔ (۹۰) گدڑی۔ (۹۱) گدڑی۔ (۹۲) گدڑی۔ (۹۳) گدڑی۔ (۹۴) گدڑی۔ (۹۵) گدڑی۔ (۹۶) گدڑی۔ (۹۷) گدڑی۔ (۹۸) گدڑی۔ (۹۹) گدڑی۔ (۱۰۰) گدڑی۔

گدڑی۔ (گدڑی۔ ۵۶) صفت (۱) ایک قسم کا ملائم پشم دار کیل۔

گدڑا۔ (گدڑا۔ ۵۶) صفت (۱) سوئی سے پشم کے کسی حصہ میں سرمہ یا نیل بھرا جانا۔

گدڑا۔ (گدڑا۔ ۵۶) صفت (۱) سوئی سے پشم کے کسی حصہ میں سرمہ یا نیل بھرا جانا۔

گدڑا۔ (گدڑا۔ ۵۶) صفت (۱) سوئی سے پشم کے کسی حصہ میں سرمہ یا نیل بھرا جانا۔

گدڑا۔ (گدڑا۔ ۵۶) صفت (۱) سوئی سے پشم کے کسی حصہ میں سرمہ یا نیل بھرا جانا۔

گدڑا۔ (گدڑا۔ ۵۶) صفت (۱) سوئی سے پشم کے کسی حصہ میں سرمہ یا نیل بھرا جانا۔

گدڑا۔ (گدڑا۔ ۵۶) صفت (۱) سوئی سے پشم کے کسی حصہ میں سرمہ یا نیل بھرا جانا۔

گدڑا۔ (گدڑا۔ ۵۶) صفت (۱) سوئی سے پشم کے کسی حصہ میں سرمہ یا نیل بھرا جانا۔

گدڑا۔ (گدڑا۔ ۵۶) صفت (۱) سوئی سے پشم کے کسی حصہ میں سرمہ یا نیل بھرا جانا۔

گدڑا۔ (گدڑا۔ ۵۶) صفت (۱) سوئی سے پشم کے کسی حصہ میں سرمہ یا نیل بھرا جانا۔

گدڑا۔ (گدڑا۔ ۵۶) صفت (۱) سوئی سے پشم کے کسی حصہ میں سرمہ یا نیل بھرا جانا۔

گدڑا۔ (گدڑا۔ ۵۶) صفت (۱) سوئی سے پشم کے کسی حصہ میں سرمہ یا نیل بھرا جانا۔

گدڑا۔ (گدڑا۔ ۵۶) صفت (۱) سوئی سے پشم کے کسی حصہ میں سرمہ یا نیل بھرا جانا۔

گدڑا۔ (گدڑا۔ ۵۶) صفت (۱) سوئی سے پشم کے کسی حصہ میں سرمہ یا نیل بھرا جانا۔

گدڑا۔ (گدڑا۔ ۵۶) صفت (۱) سوئی سے پشم کے کسی حصہ میں سرمہ یا نیل بھرا جانا۔

گدڑا۔ (گدڑا۔ ۵۶) صفت (۱) سوئی سے پشم کے کسی حصہ میں سرمہ یا نیل بھرا جانا۔

گدڑا۔ (گدڑا۔ ۵۶) صفت (۱) سوئی سے پشم کے کسی حصہ میں سرمہ یا نیل بھرا جانا۔

گدڑا۔ (گدڑا۔ ۵۶) صفت (۱) سوئی سے پشم کے کسی حصہ میں سرمہ یا نیل بھرا جانا۔

گدڑا۔ (گدڑا۔ ۵۶) صفت (۱) سوئی سے پشم کے کسی حصہ میں سرمہ یا نیل بھرا جانا۔

گدڑا۔ (گدڑا۔ ۵۶) صفت (۱) سوئی سے پشم کے کسی حصہ میں سرمہ یا نیل بھرا جانا۔

گدڑا۔ (گدڑا۔ ۵۶) صفت (۱) سوئی سے پشم کے کسی حصہ میں سرمہ یا نیل بھرا جانا۔

گدڑا۔ (گدڑا۔ ۵۶) صفت (۱) سوئی سے پشم کے کسی حصہ میں سرمہ یا نیل بھرا جانا۔

گ۔ ڈ۔

گدھے کو آدمی بنانا۔ (۱۶۔ مجاورہ) بیوقوف کو عملدہ بنانا۔
گدھے کو انجورنی باغ۔ گدھے کو پوری حلوا۔ گدھے کو گلشنہ (۱۶۔ ش)
اجتن کر بڑا رتبہ۔ نالائق کو بڑا کام۔

گدھے کو باب بنانا۔ (۱۶۔ مجاورہ) کام نکلنے کے لیے بیوقوف کی
منت خوشامد کرنا۔

گدھے کو حلوا کھلا کر لائیں کھانا۔ (۱۶۔ مجاورہ) بڈوں کے ساتھ مہلائی لگے
دکھا اور تکلیف اٹھانا۔

گدھے کو گدھا سمجھا تا ہے۔ (۱۶۔ مثل) اجتن کو اجتن ہی سراہتا ہے۔
گدھے کے سر سے سینک جانا۔ (۱۶۔ مثل) کسی چیز کا کوئی نشان

نہ ہونا۔ بالکل نہ ہونا۔
گدھے کے ہل چلانا۔ (۱۶۔ مجاورہ) کسی شہر یا جگہ کو اجڑانا۔ تباہ و
برباد کر دینا۔

گدھے کے منہ میں خشک۔ (۱۶۔ مثل) نا اہل کو کوئی اچھی چیز دینے کے
موتعہ کہتے ہیں۔

گدھے والا۔ (۱۶۔ مذ) وہ شخص جو کرایے کے لیے گدھے رکھے (۲۰) وہ شخص جو گدھے
پر چیزیں لادنے کا کام کرے۔

گدھیڑی۔ (رگ۔ دس۔ ڈی، ۵۶۔ ۱۔ مٹ) بے تمیز اور بے سلیقہ
عورت۔ مجھو بڑھو عورت۔

گدھیلا۔ (رگ۔ دس۔ لا، ۵۶) وہ شخص جس کے پاس بہت گدھے ہوں۔
گدھی۔ (رگ۔ دی، ۵۶۔ ۱۔ مٹ) تخت شاہی۔ منہ حکومت (۲۰) گدیلا منہ

(۲۰) کاغذ یا کپڑے کی تہ۔

گدھی برہیٹھنا۔ (۱۶۔ مجاورہ) منہ حکومت پر جلوہ گرہ کرنا اور کسی پیر یا بزرگ
یا گروہ کے بعد اس کا گدی نشین ہونا۔

گدھی سے اٹارنا۔ (۱۶۔ مجاورہ) حکومت سے معزل کرنا۔ تخت سے اٹارنا۔
گدھی نشین۔ (۶۶۔ صفت) تخت نشین۔ وہ شخص جو حکومت کی گدی پر بیٹھے

۲۰۔ ۲۱۔ ۲۲۔ ۲۳۔ ۲۴۔ ۲۵۔ ۲۶۔ ۲۷۔ ۲۸۔ ۲۹۔ ۳۰۔ ۳۱۔ ۳۲۔ ۳۳۔ ۳۴۔ ۳۵۔ ۳۶۔ ۳۷۔ ۳۸۔ ۳۹۔ ۴۰۔ ۴۱۔ ۴۲۔ ۴۳۔ ۴۴۔ ۴۵۔ ۴۶۔ ۴۷۔ ۴۸۔ ۴۹۔ ۵۰۔ ۵۱۔ ۵۲۔ ۵۳۔ ۵۴۔ ۵۵۔ ۵۶۔ ۵۷۔ ۵۸۔ ۵۹۔ ۶۰۔ ۶۱۔ ۶۲۔ ۶۳۔ ۶۴۔ ۶۵۔ ۶۶۔ ۶۷۔ ۶۸۔ ۶۹۔ ۷۰۔ ۷۱۔ ۷۲۔ ۷۳۔ ۷۴۔ ۷۵۔ ۷۶۔ ۷۷۔ ۷۸۔ ۷۹۔ ۸۰۔ ۸۱۔ ۸۲۔ ۸۳۔ ۸۴۔ ۸۵۔ ۸۶۔ ۸۷۔ ۸۸۔ ۸۹۔ ۹۰۔ ۹۱۔ ۹۲۔ ۹۳۔ ۹۴۔ ۹۵۔ ۹۶۔ ۹۷۔ ۹۸۔ ۹۹۔ ۱۰۰۔

گدھی نشینی۔ تخت نشینی (۲۰) پیر یا گرو وغیرہ کا جانشین،
گدھی۔ (رگ۔ دی، ۵۶۔ ۱۔ مٹ) سر کا پچھلا تھہر۔ گردن کا پچھلا تھہر
(۲۰) پچھلی تہ۔

گدھی بھاننا گدھی نامہنا۔ (۱۶۔ مجاورہ) دھپ لگانا۔ گدی پر
دھولیں چڑانا۔

گدھی سے ڈبانا کھینچنا (ڈکالنا)۔ (۱۶۔ مجاورہ) گردن کے پچھلے
حصے کو پیر کر اس راستے سے زبان نکال لینا (۲۰) مزائے موت دینا (۳۰)

چرانے زمانے کی ایک سزا۔
گدیلا۔ (رگ۔ دس۔ لا، ۵۶۔ ۱۔ مذ) رومی کا گدا۔ گوشک (۲۰) ہاتھی کے

اوپر کھینے کی گدی۔
گدیہ۔ (رگ۔ دی، ۵۶۔ ۱۔ مذ) گدائی کرنا۔ بھیک مانگنا۔

گڈ۔ (۵۶۔ ۱۔ مٹ) گاڑی کا مخفف۔ گاڑی۔ چھپڑا (۲۰) مذکر (۲۰) در آدمیوں یا چند
آدمیوں کا اتفاق (۳۰) کاغذوں کا مجموعہ۔ ملے جملے کاغذ (۴۰) مجموعہ۔

گڈ مڈ مڈ کرنا۔ (۱۶۔ مجاورہ) طارینا۔ گڑ بڑ کرنا۔
گڈ مڈ ہو کرنا۔ (۱۶۔ مجاورہ) غلوٹ ہو کرنا۔ مل جیل جانا۔

گڈ۔ (Good) (انگ۔ صفت) اچھا۔ عمدہ۔ نفیس۔ خوب (۲۰) پارسا۔
نیک۔ تریں (۳۰) مفید۔

گڈ فرائی ڈے۔ (Good Friday) مسیحی عقیدے کے مطابق
حضرت عیسیٰ کے شعلی چڑھنے کا دن (۲۰) عیسائی تیو مارچ اپریل میں جمعہ

کے دن منا ہوتا ہے۔
گڈ مارننگ (Good Morning) صبح کو سلام بمعنی صبح ستا
سے گذرے۔

گڈا۔ (رگ۔ ڈی، ۵۶۔ ۱۔ مذ) چھپڑا۔ بوجھ لادنے کی گاڑی۔
گڈا۔ (رگ۔ ڈی، ۵۶۔ ۱۔ مذ) کپڑے کا بنا ہوا آدمی یا چتلا۔

گڈا بنانا۔ (۱۶۔ مجاورہ) بنام کرنا۔ رسوا کرنا۔ دلیل کرنا۔
گڈے کرنا یا کی شادی۔ (۵۶۔ ۱۔ مٹ) بچوں کا ایک کھیل ہے جس میں وہ کپڑے

کے نیسے جوئے گڈے کرنا یا کی شادی چھانے میں (۲۰) معمولی کام۔
گڈا یا رگ۔ ڈی۔ (۵۶۔ ۱۔ مذ) مجھو بکر یاں چرانے والا۔ گالا۔ موشی چرانے والا

جو چرواہا۔ لای
گڈس۔ (Goods) (انگ۔ ۱۔ مذ) مال۔ سامان۔ اسباب۔
گڈس آفس۔ (Goods Office) (انگ۔ ۱۔ مذ) مال کا

دفتر۔ مال گڈام کا دفتر۔
گڈس ٹرین۔ (Goods Train) (انگ۔ ۱۔ مٹ) مال گاڑی۔ وہ

رول ریل گاڑی جس میں صرف سامان آتا ہوتا ہے۔
گڈس کلرک۔ (Goods Clerk) (انگ۔ ۱۔ مذ) مال گڈام کا

بابو۔ ریل کا بابو۔
گڈھ۔ (۵۶۔ ۱۔ مذ) گڑھ۔ کوٹ۔ قلعہ۔ بھارا۔

گڈھ جیتنا۔ (۱۶۔ مجاورہ) گڑھ فرج کرنا۔ قلعہ فتح کرنا اور کوئی اہم کام کرنا۔ کسی
مشکل یا مصیبت سے رہائی پانا۔

گڈھ کپتان۔ (۵۶۔ ۱۔ مذ) قلعہ کا افسر۔ قلعے کی صورت کرانے والا افسر۔
گڈھا۔ (۵۶۔ ۱۔ مذ) گڑھا۔

گڈھی۔ (رگ۔ ڈی، ۵۶۔ ۱۔ مٹ) گڑھی جو پٹا قلعہ۔ کوٹ۔
گڈھی۔ (رگ۔ ڈی، ۵۶۔ ۱۔ مٹ) ایلوی۔ بٹھا۔ پٹلی (۲۰) گاڑی۔ چھپڑا۔

گڈھی۔ (رگ۔ ڈی، ۵۶۔ ۱۔ مٹ) پٹلوں کا جوڑو (۲۰) ایک قسم کا ہینک (۳۰)
پرندے کے بچے کی گرہ جو اسے اڑنے سے باز رکھنے کے لیے باندھ دیتے

ہیں (۴۰) گڑیا۔

گ۔ر

گر۔ن حرف شرط، اگر کا مخفف جب (صفت گار کا مخفف۔ بنانہ والا۔ کرنے والا امرکیات میں استعمال ہوتا ہے۔ کارگر، زرگر وغیرہ۔

گرد و ولایت برسی مہبت نہ گردی، امر دی آ۔ (ن۔ مثل) تنویر بلادہ تو شیدان و ہوشیار شستن بہل است (پی کی کو شیار ہونا آسان ہے۔ لیکن دولت مل جائے پر دست دھکن نہ ہوتا۔ بڑے جی مرد کا کام ہے۔ یعنی مردہ ہے جو دولت کے نشے میں مست نہ ہو۔

گر بر سر من نشینی، لذت، بکشم کہ نازینینی۔ (ن۔ مثل) اگر تو میرے سر آنکھوں پر بیٹھے تو کھائے کرتیا رہوں کیونکہ تو میرا محبوب ہے اور میں تیرے ناز آنکھانا چاہتا ہوں۔

گر جہاں طلبی، مہالائقہ نیست۔ زر طلبی سخن دریں است۔ (ن۔ مثل) اگر جہاں مانگے تو حاصل ہے۔ لیکن اگر پیسے مانگے تو مشکل ہے۔ بخیل کو روپیہ جان سے عزیز ہوتا ہے۔

گر ضرورت بود روا باشد۔ (ن۔ مثل) ضرورت کے وقت سب کچھ کر لیتے ہیں۔

گر قبول افتد ز سے عزت و شرف۔ (ن۔ مثل) اندر کسی تنگے کے پیش کتے وقت کہا کتے ہیں۔ مطلب۔ اگر یہ حقیر حقہ قبول ہو جائے تو کیا ہی عزت اور بزرگی ہے۔

گر نہ بودے چوب تر۔ فرمان نہ بودے گا و نہ تر۔ (ن۔ مثل) اگر نیکی نہ ہو تو گائے اور گدھا حکم نہیں مانتے۔ جب تک کسی کا ذمہ نہ ہو کوئی کسی کی اطاعت نہیں کرتا۔

گر ہمیں گنبد، ہمیں ملنا کار و ظفان تمام خواہ شد۔ (ن۔ مثل) جب بڑی کار کا یہ حال ہو تو چھوٹی کار خدا حافظ۔

گر۔ (ن۔ ۱۰۵) مذم اصول۔ قاعدہ کلیہ۔ راز (۲) کسی کام کرنے کا خاص طریقہ کار یا قاعدہ۔ انگریزی میں اُسے فارمولہ (Formula) کہتے ہیں (۳) گرد کا مخفف۔ مرشد۔ رہنما۔ استاد (۴) نکتہ۔ پدیکہ۔

گر جہانی۔ (ن۔ ۱۰۵) مذم پیر جہانی۔ ایک گوردے کے چیلے (۲) ایک استاد کے شاگرد (۳) جم جماعت۔ ہم کتاب۔

گر دوارہ۔ (ن۔ ۱۰۵) مذم گرد کے رہنے کا مکان (۲) سکھوں کی دھرم سالار۔

گر گرد بیا۔ مسر سر گیان۔ (ن۔ ۵۶) مثل) ہر گرد اور مرشد کا علم نیک شرف ہوتا ہے جیسے ہر سریش عقل اور ذہانت مختلف ہوتی ہے۔

گر گھٹی۔ (ن۔ ۱۰۵) مذم (۱) گوردے کے منہ دکھ، کی زبان یعنی پنجابی زبان رسکھ پنجابی کو گودھی کہتے ہیں، گوردھی رسم الخط جو ناگری سے بنا جلتا ہے۔

گر۔ (ن۔ ۵) صفت (صفت) مرغی مائل لاکھی رنگ۔

گر۔ (ن۔ ۵) صفت (صفت) مرغی۔ غریب۔ ذلیل۔

گر اڑنا۔ (ن۔ ۱۶) صفت زمین پر گرا اور پڑنا (۲) ذلیل۔ بخوار۔

گر اڑنا۔ (ن۔ ۱۶) محاورہ (ن) ٹوٹا پڑنا کسی چیز پر حد سے زیادہ رغبت کرنا۔

گر اجانا۔ (ن۔ ۱۶) محاورہ (ن) کمزوری محسوس کرنا۔ گھبرا جانا۔

گر آنکہ کرا۔ (ن۔ ۱۶) صفت (ن) اب بہت جلد گرا چاہتا ہے۔

گر نہیں سنہٹلنا۔ (ن۔ ۱۶) مثل (ن) ذلت پا کر بھڑو قار حاصل نہیں ہوتا۔

گرے بڑے کا سووا۔ (ن۔ ۱۱) مثل (ن) وہ معاملہ جو خوشامد و نامد کے درمیان ہوا جلتے۔

گرے بڑے وقت کا کھڑا۔ (ن۔ ۱۱) محاورہ (ن) وہ چیز جو مصیبت کے وقت کام آئے۔

گراب۔ (ن۔ ۱) صفت (ن) مذم کار توں کے چھڑوں سے بڑی گولی۔ بڑا چھڑا۔

گراری۔ (ن۔ ۱) صفت (ن) مذم (۱) دھاگا یا رسی بٹنے کا آلہ (۲) دھاگا بٹینے کی ریل (۳) کوئین کی چرچی (۴) مشینوں کا پرزہ جو پیسے کی شکل کا ہوتا ہے۔

گر از۔ (ن۔ ۱) صفت (ن) مذم (۱) زورور (۲) شجاع۔ بہادر۔

گر اس۔ (ن۔ ۱) صفت (ن) مذم (۱) قلعہ۔ نالار۔

گر اس۔ (Grass) (ن۔ ۱) صفت (ن) مذم (۱) گھاس۔

گر اس کٹ گراس کٹر۔ (Grass Cutter) (ن۔ ۱) صفت (ن) گھسیارا گھاس کٹنے والا۔ سائیس۔

گراف۔ (Graph) (ن۔ ۱) صفت (ن) مذم (۱) اعداد و شمار کا ملائی خاکہ۔

گرام۔ (Gram) (ن۔ ۱) صفت (ن) مذم (۱) موٹن۔ بستی۔ (۲) واگ کے سڑوں کا مجموعہ۔

گرام۔ (Gramme) (ن۔ ۱) صفت (ن) مذم (۱) مٹر مقل پانی کا وزن جب کمال کثافت رکھتا ہو۔ اور خالص تو لگاتے۔ وزن تقریباً ایک ماشہ۔

اشداری نظام کا ایک حصہ۔ ہزار گرام یا ایک سیر آٹھ ٹولہ کے برابر وزن۔

گرامر۔ (Grammar) (ن۔ ۱) صفت (ن) مذم (۱) صرف و نحو۔ زبان کی قواعد۔

گراموفون۔ (Gramophone) (ن۔ ۱) صفت (ن) مذم (۱) ایک آلہ جس کے ریکارڈ سے آواز نکلتی ہے۔

گرامی۔ (Gram) (ن۔ ۱) صفت (ن) مذم (۱) بہت بزرگ۔ مکرم۔ معظم (۲) فارسی کے شاہ مولانا غلام قادر جانندی کا تخلص۔

گرامی منش۔ (ن۔ ۱) صفت (ن) مذم (۱) قدر بزرگ طبیعت والا۔

گرامی نامہ۔ (ن۔ ۱) صفت (ن) مذم (۱) بڑے کا خط۔

گران۔ (ن۔ ۱) صفت (ن) مذم (۱) گری۔

گراں۔ (ن۔ ۱) صفت (ن) مذم (۱) بوجھ لدا ہوا (۲) باردار۔ پھل لانے والا (۳) مالدار۔

گراں شاری۔ (ن۔ ۱) صفت (ن) مذم (۱) زبیریاری۔ پریشانی۔

گراں بہا۔ (ن۔ ۱) صفت (ن) مذم (۱) بیش قیمت۔

گراں بہ حکمت ارزاں بہ عقلت۔ ۶۷۔ نیش (بوجیز پیش قیمت ہوتی ہے وہ اچھی ہوتی ہے اور بوجیز سستی ہوتی ہے اس میں کوئی نہ کوئی غرابی ہوا کرتی ہے۔

گراں پایہ۔ ۶۸۔ صفت (بڑا آدمی۔ بڑے پائے کا شخص۔ صاحب قدر و منزلت۔

گراں جاں۔ ۶۹۔ صفت (سخت جان والا۔ یعنی ایسا شخص جسے زندگی دیکھو۔ سخت۔ کابل۔

گراں خاطر۔ ۷۰۔ صفت (دوبھر۔ امیر۔ ناگوار طبع (۲۲ ناراض۔ آزرہ رنجیدہ۔ ٹھیک۔

گراں خواب۔ ۷۱۔ صفت (وہ شخص جو بہت سوئے۔ دیر تک سوتا رہے (۲۲ غافل۔

گراں خوابی۔ ۷۲۔ صفت (غفلت۔ کاپلی۔

گراں سہ۔ ۷۳۔ صفت (ہکبتر۔ معزور۔

گراں ہر شہت۔ ۷۴۔ صفت (صاحب وقار (۲۲ مغرور۔ شہباز۔

گراں بچ۔ ۷۵۔ صفت (وزنی۔ پیش قیمت۔

گراں قدر۔ ۷۶۔ صفت (مالی مرتبہ۔ صاحب اعزاز۔

گراں کرنا۔ ۷۷۔ صفت (ہنگامہ۔ بھادو چھانا۔

گراں کزنا۔ ۷۸۔ صفت (ناگوار ہونا۔ بڑا لگن۔ دوبھر ہونا۔ ناپسند خاطر ہونا۔

گراں گوش۔ ۷۹۔ صفت (بہرا۔ جو آدمی نہ سمجھتا۔

گراں گہر۔ ۸۰۔ صفت (سخت گیر۔ جاہل۔

گراں مائی۔ ۸۱۔ صفت (بزرگی۔ سرداری (۲۲ دولت مندی۔

گراں مایہ۔ ۸۲۔ صفت (غیس۔ گیتی (۲۲ بڑا آدمی جو صاحب قدر و منزلت ہو۔

گراں ہونا۔ ۸۳۔ صفت (دوبھر ہونا (۲۲ بھاری ہونا (۳۲ ہنگامہ ہونا۔

بھادو چھانا۔

گرانا۔ ۸۴۔ صفت (میں نیچے ڈالنا۔ مہینکنا (۲۲ ڈھانا۔ مسامرا کرنا۔

گرانا (۳۲) دے مارنا۔ پکنا (۳۲) دوجہ توڑنا۔ مرتبہ گھٹانا (۵۲) قیمت کم کرنا (۹۲) ڈھال کرنا۔

گراٹھ۔ ۸۵۔ صفت (منظوری۔ مالی اعانت۔

گراٹھ بان ایڈر۔ ۸۶۔ صفت (مالی امداد جو حکومت رفاه عام کے اداروں کو دیتی ہے۔

گراٹھ جیوری۔ ۸۷۔ صفت (Grand Jury) رگ۔ رائڈ۔ بچ۔ پو۔

ری (۱)۔ صفت (وہ عدالت جس میں بارہ سے کم اور تیس سے زیادہ بیچ نہ ہوں۔

گرانی۔ ۸۸۔ صفت (رائی (۱۰)۔ صفت (بھادو چھانا۔ بھادو چھانا (۲۲) نوٹ کی جلت (۳۲) قوط۔ کابل خشک سال (۳۲) بد قسمتی۔ پوجہ۔

گرانی خاطر (طبع)۔ ۸۹۔ صفت (بیزاری۔ طبیعت کی ناگواری۔

گرانی۔ ۹۰۔ صفت (گرانی کا مختلف۔ پکڑ۔ گرفتاری۔ حکمہ ٹھیک۔

گرانی۔ ۹۱۔ صفت (راہ (۱۰)۔ صفت (مگر چھ۔ ہنگامہ۔ ٹھیک۔

گراؤنڈ (Ground) رگ۔ صفت (جگہ (۱)۔ صفت (زمین (۲)۔ میدان۔

گرگ۔ ۱۔ صفت (گمان۔ غرور۔ گھنڈ۔ ٹیکر۔

گرگ۔ ۲۔ صفت (گمان۔ غرور۔ گھنڈ۔ ٹیکر۔

گرگ۔ ۳۔ صفت (گمان۔ غرور۔ گھنڈ۔ ٹیکر۔

گرگ۔ ۴۔ صفت (گمان۔ غرور۔ گھنڈ۔ ٹیکر۔

گرگ۔ ۵۔ صفت (گمان۔ غرور۔ گھنڈ۔ ٹیکر۔

گرگ۔ ۶۔ صفت (گمان۔ غرور۔ گھنڈ۔ ٹیکر۔

گرگ۔ ۷۔ صفت (گمان۔ غرور۔ گھنڈ۔ ٹیکر۔

گرگ۔ ۸۔ صفت (گمان۔ غرور۔ گھنڈ۔ ٹیکر۔

گرگ۔ ۹۔ صفت (گمان۔ غرور۔ گھنڈ۔ ٹیکر۔

گرگ۔ ۱۰۔ صفت (گمان۔ غرور۔ گھنڈ۔ ٹیکر۔

گرگ۔ ۱۱۔ صفت (گمان۔ غرور۔ گھنڈ۔ ٹیکر۔

گرگ۔ ۱۲۔ صفت (گمان۔ غرور۔ گھنڈ۔ ٹیکر۔

گرگ۔ ۱۳۔ صفت (گمان۔ غرور۔ گھنڈ۔ ٹیکر۔

گرگ۔ ۱۴۔ صفت (گمان۔ غرور۔ گھنڈ۔ ٹیکر۔

گرگ۔ ۱۵۔ صفت (گمان۔ غرور۔ گھنڈ۔ ٹیکر۔

گرگ۔ ۱۶۔ صفت (گمان۔ غرور۔ گھنڈ۔ ٹیکر۔

گرگ۔ ۱۷۔ صفت (گمان۔ غرور۔ گھنڈ۔ ٹیکر۔

گرگ۔ ۱۸۔ صفت (گمان۔ غرور۔ گھنڈ۔ ٹیکر۔

گرگ۔ ۱۹۔ صفت (گمان۔ غرور۔ گھنڈ۔ ٹیکر۔

گرگ۔ ۲۰۔ صفت (گمان۔ غرور۔ گھنڈ۔ ٹیکر۔

گرگ۔ ۲۱۔ صفت (گمان۔ غرور۔ گھنڈ۔ ٹیکر۔

گرگ۔ ۲۲۔ صفت (گمان۔ غرور۔ گھنڈ۔ ٹیکر۔

گرگ۔ ۲۳۔ صفت (گمان۔ غرور۔ گھنڈ۔ ٹیکر۔

گرگ۔ ۲۴۔ صفت (گمان۔ غرور۔ گھنڈ۔ ٹیکر۔

گرگ۔ ۲۵۔ صفت (گمان۔ غرور۔ گھنڈ۔ ٹیکر۔

گرگ۔ ۲۶۔ صفت (گمان۔ غرور۔ گھنڈ۔ ٹیکر۔

گرگ۔ ۲۷۔ صفت (گمان۔ غرور۔ گھنڈ۔ ٹیکر۔

گرگ۔ ۲۸۔ صفت (گمان۔ غرور۔ گھنڈ۔ ٹیکر۔

گرگ۔ ۲۹۔ صفت (گمان۔ غرور۔ گھنڈ۔ ٹیکر۔

گرگ۔ ۳۰۔ صفت (گمان۔ غرور۔ گھنڈ۔ ٹیکر۔

گرگ۔ ۳۱۔ صفت (گمان۔ غرور۔ گھنڈ۔ ٹیکر۔

گرگ۔ ۳۲۔ صفت (گمان۔ غرور۔ گھنڈ۔ ٹیکر۔

گرگج سنگ - ریح گرگج، 1 گس۔ 1۔ منٹ ایک گھاس چوبیل کی طرح پھیلتی ہے۔
 گرگو۔ 1۔ منٹ، غبار، لاکھ، دھول (2)۔ بے حقیقت۔ ناجائز (صفت)
 پھرنے والا پتھر کھانے والا۔ سفر کرنے والا۔ مرکبات میں استعمال
 ہوتا ہے۔ آوارہ گرد۔ جہاں گرد وغیرہ۔
 گرد آفتاب۔ 1۔ منٹ (2)۔ آدھے جو سورج کی کرنوں میں چمکتے ہیں۔
 گرد آلودہ۔ 1۔ منٹ (صفت) مٹی میں ملا ہوا غبار آلودہ چیز جس پر گرجی ہوئی ہو۔
 گرد اٹھنا۔ 11۔ محاورہ، ہمارے دور سے غبار کا نہیں سے بلند ہونا۔
 گرد اڑانا۔ 17۔ محاورہ، غبار اڑانا، خاک کرنا (2)۔ شاہ کرنا، برہادر کرنا۔
 گرد مارا۔ 1۔ منٹ (صفت) گولا۔ پھرنے والی ہوا۔ ہوا جس میں غبار ملا ہوا ہو۔
 گرد مٹھنا۔ 11۔ محاورہ، غبار کا نشیبی ہونا۔ غبار کا نیچے جم جانا (2)۔ میل
 جمنار (2)۔ آندھی کا کہ ہونا۔
 گرد پڑنا۔ 11۔ محاورہ، غبار کا آڑ کر کسی کے جسم کی پڑوں وغیرہ پر پڑنا۔
 گرد پوش۔ 1۔ منٹ (صفت) وہ کاغذ جو کتاب کو میلا ہونے سے بچاتا ہے۔
 گرد پوشینا۔ 11۔ محاورہ، دھول صاف کرنا۔
 گرد چھنا۔ 1۔ محاورہ، غبار کا ایک جگہ بیٹھ جانا۔
 گرد چھڑنا۔ 11۔ محاورہ، دھول صاف کرنا (2)۔ مازنا۔ سزا دینا۔
 گرد کرنا۔ 17۔ محاورہ، بے نور کرنا۔ ماند کرنا۔ مات کرنا۔ بہرانا (2)۔
 کپڑے میلے کرنا۔
 گرد کو نہ پہنچنا۔ 11۔ محاورہ، پیچھے رہ جانا۔ برابری نہ کر سکتا۔ عاجز رہنا۔
 گرد نامہ۔ 1۔ منٹ (2)۔ وہ مربع کاغذ کا ٹکڑا جس پر دعائیں لکھ کر گھر کے
 ستونوں میں یا کسی درخت کے گرد بانڈھتے ہیں، تاکہ بچا گیا ہو آدمی
 واپس آجائے۔
 گرد پوش۔ ارد گرد۔ آس پاس۔ قریب۔
 گرد و غبار۔ 1۔ منٹ (2)۔ منٹ اور دھول۔ خاک اور دھول۔
 گرد ہونا۔ 17۔ محاورہ، مات ہونا۔ خاک ہونا۔ بے اثر ہونا (2)۔ بے رونق
 ہونا (2)۔ شرمندہ ہونا
 گرد ہسے۔ 11۔ محاورہ، بیخ ہے۔ بے حقیقت ہے کچھ حقیقت
 نہیں رکھتا۔
 گرد۔ 1۔ منٹ (صفت) آس پاس۔ نواح (2)۔ مدد۔ گول (3)۔ حلقہ۔
 گھیرا (2)۔ بیچھے۔
 گرد بائیں۔ 1۔ منٹ (2)۔ منٹ وہ گول اور چھوٹا گیارہ جو سوتے وقت رخساروں
 کے نیچے رکھا جائے۔
 گرد پھینا۔ 17۔ محاورہ، طواف کرنا۔ صدف ہونا۔
 گرد پھینا۔ 17۔ صفت (آوارہ گرد (2)۔ فلسفہ تماش بین۔
 گرد پھاڑا۔ اگر جس کے ذریعے سمت معلوم کی جائے۔ (Periscope)
 گرد پوش۔ 1۔ منٹ (2)۔ منٹ آس پاس کا علاقہ۔
 قریب و جوار۔
 گرد ہونا۔ 11۔ محاورہ، پیچھے پڑنا۔ درپے ہونا۔
 گرد۔ 1۔ منٹ (صفت) بہادر شخص۔ پہلوان۔ طاقتور جمع۔ گرداں۔
 گردا۔ 1۔ منٹ (2)۔ منٹ آس پاس کا علاقہ۔

گرداب۔ 1۔ منٹ (2)۔ منٹ 1۔ منٹ 1۔ منٹ بھلا۔ پانی کا پتھر ٹھہر گھیری۔
 گرد اور گرد۔ 1۔ منٹ (2)۔ منٹ (2)۔ منٹ (2)۔ منٹ (2)۔ منٹ (2)۔ منٹ (2)۔
 گردال۔ 1۔ منٹ (2)۔ منٹ (2)۔ منٹ (2)۔ منٹ (2)۔ منٹ (2)۔ منٹ (2)۔
 گردان۔ 1۔ منٹ (2)۔ منٹ (2)۔ منٹ (2)۔ منٹ (2)۔ منٹ (2)۔ منٹ (2)۔
 وہرانا۔
 گردان کرنا۔ 11۔ محاورہ، صیغوں کو بالترتیب زمانہ اور وحدت جمع وغیرہ
 کے لحاظ سے بڑھانا۔
 گرداننا۔ 1۔ منٹ (2)۔ منٹ (2)۔ منٹ (2)۔ منٹ (2)۔ منٹ (2)۔ منٹ (2)۔
 دور کرنا (2)۔ منٹ (2)۔ منٹ (2)۔ منٹ (2)۔ منٹ (2)۔ منٹ (2)۔
 گردانی۔ 1۔ منٹ (2)۔ منٹ (2)۔ منٹ (2)۔ منٹ (2)۔ منٹ (2)۔ منٹ (2)۔
 خاص طریقے سے اور صحتی ہیں۔
 گرد اور۔ 1۔ منٹ (2)۔ منٹ (2)۔ منٹ (2)۔ منٹ (2)۔ منٹ (2)۔ منٹ (2)۔
 کرنے والا عہدے دار۔
 گرد اور سی۔ 1۔ منٹ (2)۔ منٹ (2)۔ منٹ (2)۔ منٹ (2)۔ منٹ (2)۔ منٹ (2)۔
 گشت (2)۔ منٹ (2)۔ منٹ (2)۔ منٹ (2)۔ منٹ (2)۔ منٹ (2)۔
 عہدیدار کا فہلوں کے اندراج کے لیے گشت۔
 گردوش۔ 1۔ منٹ (2)۔ منٹ (2)۔ منٹ (2)۔ منٹ (2)۔ منٹ (2)۔ منٹ (2)۔
 بدیہی۔ بد انتہائی روی، سختی، مصیبت۔ آنت۔
 گردوش استعمال (2)۔ منٹ (2)۔ منٹ (2)۔ منٹ (2)۔ منٹ (2)۔ منٹ (2)۔
 بدیہی۔
 گردوش چشم۔ 1۔ منٹ (2)۔ منٹ (2)۔ منٹ (2)۔ منٹ (2)۔ منٹ (2)۔ منٹ (2)۔
 گردوش دوران (2)۔ منٹ (2)۔ منٹ (2)۔ منٹ (2)۔ منٹ (2)۔ منٹ (2)۔
 گردوش زردہ۔ 1۔ منٹ (2)۔ منٹ (2)۔ منٹ (2)۔ منٹ (2)۔ منٹ (2)۔ منٹ (2)۔
 گردوش زمین۔ 1۔ منٹ (2)۔ منٹ (2)۔ منٹ (2)۔ منٹ (2)۔ منٹ (2)۔ منٹ (2)۔
 میں زمین لپٹے مور کے گرد 2۔ منٹ (2)۔ منٹ (2)۔ منٹ (2)۔ منٹ (2)۔ منٹ (2)۔ منٹ (2)۔
 دن رات بنتے ہیں۔ دوسری دوری گردوش جس میں زمین 3۔ منٹ (2)۔ منٹ (2)۔ منٹ (2)۔
 4۔ منٹ (2)۔ منٹ (2)۔ منٹ (2)۔ منٹ (2)۔ منٹ (2)۔ منٹ (2)۔
 سے مختلف موسم ظہور میں آتے ہیں۔ اس پورے جگہ کو ایک سال کہتے ہیں جسے
 شمسی سال کہا جاتا ہے۔
 گردوش رکنا، کھانا۔ 17۔ محاورہ، گھومنا۔ پتھر کھانا۔ پھرنا۔ مصیبت میں مبتلا ہونا۔
 گردوش لیل و نہار۔ 1۔ منٹ (2)۔ منٹ (2)۔ منٹ (2)۔ منٹ (2)۔ منٹ (2)۔ منٹ (2)۔
 گردوش میں آنا، ہونا۔ 17۔ محاورہ، پتھر میں آنا۔ مصیبت یا ہمت
 میں پھنسا۔
 گردو کاں۔ 1۔ منٹ (2)۔ منٹ (2)۔ منٹ (2)۔ منٹ (2)۔ منٹ (2)۔ منٹ (2)۔
 گردون۔ 1۔ منٹ (2)۔ منٹ (2)۔ منٹ (2)۔ منٹ (2)۔ منٹ (2)۔ منٹ (2)۔
 سے غم شروع ہوتا ہے۔
 گردون اڑانا، اڑا دینا، نقل کرنا۔ گردن کاٹنا۔ سر تلک کرنا۔ سر ہٹانا۔
 گردون اکر جاننا۔ 17۔ محاورہ، گردن کاٹنا۔ تھک جانا۔ گردن کے
 پتھوں کا سخت ہوجانا۔
 گردن اٹھنا۔ 17۔ محاورہ، خفا ہونا۔ اٹھا اور کھپ رہنا۔

گردن بند - 1. مذموم ایک زور رکھنا۔
 گردن پر احسان ہونا - 12. محاورہ ہارا احسان سے سر جھکا ہونا۔
 گردن پر بوجھ رہنا - 17. محاورہ عذاب سر پر رہنا، احسان مند ہونا،
 ناکار ہونا، سرگردانی کا موجب ہونا۔
 گردن پر بوجھ لینا - 11. محاورہ اپنے سر زبرداری لینا۔ ممنون احسان
 ہونا۔
 گردن پر بوجھ ہونا - 17. محاورہ ہارا احسان میں رہنا، گناہوں کے عذاب کا
 سر پر ہونا، ناکار خاطر ہونا، گراں بار ہونا۔
 گردن پر جو رکھنا - 17. محاورہ بوجھ اٹھانا، کوئی بھاری کام
 ذمے لینا۔
 گردن پر پھیری پھیرنا - 17. محاورہ ذبح کرنا، مزید ظلم کرنا۔
 گردن پر پھیری چھیننا - 1. محاورہ ذبح کیا جانے والا، حق تلفی ہونا۔
 بہت ظلم ہونا۔
 گردن پر ترقی کرنا - 17. محاورہ کسی کے ذمے کسی کا حق رہنا۔
 گردن پر خط پھیننا - 17. محاورہ قتل کرنے کے لیے جلاؤ کا قتل سے پہلے گردن
 پر نشان لگانا، جگہ ٹھکانا، نشان پینگے۔
 گردن پر خوجھ جانا - 17. محاورہ بہت نظر کرنا۔
 گردن پر خون کرنا - 17. محاورہ کسی کے قتل کا وبال گردن پر رہنا۔
 گردن پر خون ہونا - 17. محاورہ کسی کے قتل کا عذاب یا گناہ سر پر ہونا، قتل
 کے گناہ کا بوجھ اور خون کا ذمہ دار ہونا۔
 گردن پر خون سوار ہونا - 11. محاورہ خوبی کا اپنی زندگی سے ہاتھ دھو کر
 کسی کے پیچھے پڑنا۔
 گردن پر خون لینا - 17. محاورہ قتل کی ذمہ داری اپنے اوپر لینا۔
 گردن پر سوار ہونا - 17. محاورہ کسی کی گردن پر چھٹنا، سخت لٹکانا کرنا۔
 کسی بات یا کام کے لیے از حد تنگ اور مجبور کرنا۔
 گردن پر دبا ہونا - 17. محاورہ کسی ذمے عذاب ہونا، کسی گناہ کا بوجھ
 حسبِ قیمت کفارہ اور نہ ہو، ہونا۔
 گردن پر ڈال کر نکال دینا - 17. محاورہ اپنے عزت کر کے نکال دینا، گردن میں
 ہاتھ ڈال کر نکال دینا۔
 گردن پھینسانا - 17. محاورہ گردن کو پھیندے میں ڈالنا، اپنے آپ کو پھیندے
 میں پھینسانا، ضامن ہونا، ذمہ داری لینا۔
 گردن پھینستا - 17. محاورہ بلا میں گرفتار ہو جانا۔ خطرے میں پڑنا۔
 گردن پھیرنا - 17. محاورہ مغز ہونا، سرکشی کرنا، حکم نہ ماننا۔
 گردن ٹوڑنا - 17. محاورہ ایک غلط نیک بھار جس میں گردن اکڑ
 جاتی ہے۔
 گردن ٹوڑنا - 12. محاورہ کسی کو مارنا، پھینسا، سزا دینا، مغلوب کرنا۔
 گردن جھکا کر چلنا - 17. محاورہ آنکھ ساری کرنا۔
 گردن جھکانا - 17. محاورہ گردن نیچے کرنا، بوجھ کے مارے گردن خم کرنا،
 تسلیم پہنانا، ادب سے سلام کرنا، اطاعت کرنا، متابعت کرنا،
 شرمندہ ہونا، احسان مند ہونا، عاجزی کرنا۔

گردن جھکانا - 1. محاورہ گردن نیچے ہونا، سلام کے لیے جھکنا، زیر بار
 احسان ہونا، شرمندہ ہونا، مطیع ہونا، عاجزی ظاہر کرنا۔
 گردن جھکانا - 17. محاورہ مصیبت سے نجات دلانا۔ آزاد کرنا۔
 گردن ڈبانا - 17. محاورہ مغلوب کرنا، قابو کرنا۔
 گردن دینی ہونا - 17. محاورہ ممنون احسان ہونا۔
 گردن ڈالنا - 11. محاورہ گردن نیچے کرنا، شرمندگی سے یا عاجزی سے
 گردن جھکا دینا۔
 گردن ڈھلکانا - 17. محاورہ گردن کا ٹوٹ جانا، شکا ڈھلکا
 (۲) مرنے کے قریب ہونا۔
 گردن زدن - 17. محاورہ کشتی، واجب القتل، قتل کیے جانے کا سزا دار۔
 مار ڈالنے کے قابل۔
 گردن زدن - 17. مذموم جلاؤ۔
 گردن سے جو اتارنا - 17. محاورہ آزاد ہونا، اطاعت اور فرمانبرداری
 سے نجات پانا۔
 گردن سیدھی ہونا - 12. محاورہ مغرور ہونا۔
 گردن فراز ہونا - 17. معنی سرکش، تکبر، باغی۔
 گردن کا بوجھ اتارنا - 17. محاورہ ذمہ داری سے سیکدوش ہونا۔
 گردن کاٹنا - 17. محاورہ گردن سے سر جدا کرنا، حق تلفی کرنا، بہت
 ظلم ڈھانا۔
 گردن کا ڈورا - 17. مذموم وہ سیاہ ڈورا جو نظر بد کے خیال سے گلے میں پینتے ہیں، (۲)
 ایک خاص انداز معشوقانہ سے گردن کی لپک۔
 گردن کا منکا (مہرہ) - 17. مذموم پشت کی وہ ہڈی جہاں سے گردن
 شریع ہوتی ہے۔
 گردن کا منکا ڈھلکانا (ڈھلکانا) - 17. محاورہ گردن کی پھلی ہڈی کا نیچے
 ٹپک جانا، مرنے لگنا۔
 گردن لٹکنا - 17. محاورہ لٹکنا، مرجانا، قتل ہونا، حلال ہونا، تباہ ہونا، برباد
 ہونا، زبردستی مال لیجانا۔
 گردن کش - 17. معنی مغز، باغی، تکبر۔
 گردن کشتی - 17. معنی قیادت، سافرمانی، عزور، تکبر، (۲)
 شرارت، شوخی۔
 گردن مارنا - 17. محاورہ قتل کرنا، ہلاک کرنا، تکلیف دینا، نقصان پہنچانا۔
 گردن مارو اور گریبان میں مٹھ ڈالو - 17. مثل نقصان کرنے
 چاہو کسی کو، بظاہر نیک بن کر لوگوں کو جھگڑو۔
 گردن مردانا - 17. محاورہ قتل کرنا، ہلاک کرنا۔
 گردن مردانا - 17. محاورہ گلا گھونٹنا، کسی جانور کو بغیر ذبح کیے گلا گھونٹ
 کر مارنا۔
 گردن مینا - 17. معنی صراحی کی گردن، صراحی کا اوپر کا پتلا حصہ۔
 گردن میں تسبیح ڈالنا - 17. محاورہ زبردستی اختیار کرنا۔
 گردن میں ہاتھ دے کر نکالنا - 17. محاورہ نہایت بے عزتی
 سے نکال دینا۔

گردن میں ہاتھ دینا۔ ۱۶۔ محاورہ نکالنے کے لیے گردن پکڑنا ۲۱، تیار کرنا۔ سمجھت کرنا۔
 گردن ناپنا۔ ۱۷۔ محاورہ درزی کا گردن کی پیمائش کرنا ۲۲، گردن پکڑنے نکال دینا ۳۳، مار ڈالنا۔
 گردن سچی ڈالنا۔ ۱۷۔ محاورہ شرم سے گردن جھکا لینا۔
 گردن سچی ہونا۔ ۱۷۔ محاورہ گردن جھکا کر، شرمندہ ہونا ۲۳، عزور ڈھلے جانا۔
 گردن نہ اٹھانا۔ ۱۷۔ محاورہ شرمندگی سے آنکھ سنانے نہ کرنا، آن نہ کرنا۔
 گردن وہاں ماریے جہاں پانی نہ ہو۔ ۱۱۔ مثل بہت بُرے کے متعلق کہا جاتا ہے۔
 گردن ہلانا۔ ۱۷۔ محاورہ انکار کرنا۔ مکرنا ۲۲، اقرار کرنا۔
 گردن ہلنے لگنا۔ ۱۷۔ محاورہ بڑھاپے سے باعث گردن میں رعشہ ہوجانا۔ بہت بوڑھا ہوجانا۔
 گردنا۔ (گرد، نا، ڈ، آ، ا، مذ) موٹی گردن ۲۲، دھول دھپا۔
 گردنی۔ (گرد، ڈ، نی، آ، ا، مذ) گھوڑے پر ڈالنے کا کچرا جو گردن سے لے کر پھول تک ہوتا ہے رہا سقن کا ایک داڑ۔
 گردنی دینا۔ ۱۷۔ محاورہ گردن میں ہاتھ دوسے کڑکھال دینا۔ گردن پر جانتا لگانا۔
 گردنی مارنا۔ ۱۷۔ محاورہ گردن پر ہاتھ مارنا۔
 گردوں۔ (گرد، دل، آ، ا، مذ) آسمان چرخ ۲۲، رتھ پہلی ۲۳، گاڑی۔ چھوڑا ۲۴، گھومنے والا۔
 گردوں اقتدار۔ ۱۷۔ صفت صاحب منزلت صاحب قدرت زبردست۔
 گردوں پر دماغ ہونا۔ ۱۷۔ محاورہ آسمان پر دماغ ہونا۔ بہت متکبر ہونا۔
 گردوں پر کلاہ پھینکنا۔ ۱۷۔ محاورہ ٹوٹی اچھالنا۔ خوشی سے اترا۔
 فز کرنا۔
 گردوں پناہ۔ ۱۶۔ صفت بادشاہ کی صفت کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔
 گردوں ٹھکیں۔ ۱۷۔ صفت عرت یا طاقت میں آسمان کے برابر۔
 گردوں پر تھوڑے اسی پر پڑے۔ ۱۷۔ مثل آسمان پر تھوڑا اپنے منہ پر آتا ہے۔
 گردوں رکاب (سریر)۔ ۱۶۔ صفت بادشاہ۔
 گردوں سرسنت۔ ۱۷۔ صفت مغرور جھکے ۲۲، باوقار ۲۳، ناموافق۔
 گردوں کرداں۔ ۱۷۔ مذ بھرنے والا آسمان۔
 گردوں وقار۔ ۱۷۔ صفت بڑے اختیار یا مرتبے والا۔
 گردوں ہمت۔ ۱۷۔ صفت بلند ہمت۔
 گردہ۔ (گرد، آ، ا، مذ) خاک ۲۲، صورتوں کے استعمال کا سفوف،
 گردہ۔ (گرد، آ، ا، مذ) دائرہ حلقہ۔ کنڈلی ۱۲، احاطہ ۳۳، ایک قسم کی خمیری روٹی ۲۴، چھوٹی گولی تیکہ۔
 گردہ۔ (گرد، آ، ا، مذ) انسان یا جوان کا ایک اندرونی عضو جس میں پیشاب چھنسا ہے ۲۴، جراثیم، حوصلہ۔ دلیری ۳۳، ایک قسم

کی چھوٹی ٹوپ۔
 گردہ ہونا۔ ۱۷۔ محاورہ حوصلہ ہونا۔ دلیری ہونا۔ جراثیم ہونا۔
 گردہر۔ ۱۶۔ صفت حریف۔ لالچی۔
 گردی۔ ۱۷۔ صفت حرکت میں مستقل ہونا ہے۔ بدبختی۔ بد نصیبی جیسے بادشاہ گردی۔
 گردیدہ۔ ۱۷۔ صفت پھیلا ہوا۔ مڑا ہوا ۲۲، چلا ہوا ۳۳، ناراض۔
 گردی۔ (گرد، آ، ا، مذ) گردھک طرح کا ایک جائز ۲۲، نیل کٹھنہ۔
 گردی۔ ۱۷۔ صفت ایک ہتھیار جو اوپر سے گول موٹا اور پیچھے سے پتلا ہوتا ہے۔
 گردی بردار۔ ۱۷۔ صفت اگر گڑا ٹھانے والا۔
 گردی گاؤں۔ ۱۷۔ صفت فریدیوں بادشاہ کے گردگانا ۲۲، گرد جس کی شکل گانے کے سر کی ہو۔
 گردی مار۔ ۱۷۔ صفت فریدیوں کا ایک (تذکرہ) لیے پھر تپے اگر کوئی خیرات دے تو اپنے آپ کو زخمی کر لیتا ہے۔
 گروس (Gross)۔ (گرس، آ، ا، مذ) بارہ درجی۔ ۲۲، عدد۔
 گرس۔ (گرس، آ، ا، مذ) آئینا کی قسم کی زرد چوڑی والا برندہ۔
 گرسنگی۔ (گرس، آ، ا، مذ) جھوک۔ اشتہا۔
 گرسنت۔ (گرس، آ، ا، مذ) صفت جھوکا۔
 گرسنتہ چشم۔ ۱۷۔ صفت بنجیل کمینہ۔ لالچی۔
 گرسنتہ چشمی۔ ۱۷۔ صفت حریف۔ گدائی۔
 گرسوسی۔ (گرس، آ، ا، مذ) گھٹولا جھونپڑا چھپر۔
 گرفت۔ (گرف، آ، ا، مذ) پکڑنا ۲۲، رستہ۔ قبضہ ۲۳، اعتراض مزاحمت۔ مطالبہ۔
 گرفت کرنا۔ ۱۷۔ محاورہ پکڑنا ۲۲، اعتراض کرنا۔ مزاحمت کرنا۔ جھاننا۔
 گرفت میں آنا۔ ۱۷۔ محاورہ چنگل میں آنا۔ تابو میں آنا۔ پکڑنا۔
 گرفتار۔ (گرف، آ، ا، مذ) پکڑنا۔ قیدی۔ اسیر ۲۲، چھنسا ہوا۔
 ۳۳، عاشق۔ فریفتہ۔
 گرفتار رہنا۔ ۱۷۔ محاورہ چھنسا رہنا۔ مقید رہنا۔
 گرفتار شدہ۔ ۱۷۔ محاورہ اسیر۔ قیدی۔ گرفتار۔
 گرفتار کرنا۔ ۱۷۔ محاورہ پکڑ لینا۔ قید کرنا۔ اسیر بنانا۔ جیل خانے میں ڈالنا۔
 گرفتار ہونا۔ ۱۷۔ محاورہ پکڑا جانا ۲۲، چھنسا۔ پتلا ہونا۔
 گرفتاری۔ (گرف، آ، ا، مذ) پکڑنا ۲۲، قید۔ نظر بندی۔
 الجھاؤ۔ جنجال۔
 گرفتگی۔ (گرف، آ، ا، مذ) پکڑنا ۲۲، رکاوٹ۔ گھٹاؤ ۳۳،
 گنتی۔ (گنت، آ، ا، مذ) طے ہونا۔
 گنتی گزار۔ ۱۷۔ مذ گلا پڑنا۔ آواز کا بیلٹھ جانا۔
 گرفتہ رنگ۔ صفت پکڑا ہوا مرکبات میں استعمال ہوتا ہے جیسے اہل گرفتہ گرفتہ خاطر (دل)۔ ۱۷۔ صفت ناخوش۔ رنجیدہ۔ طول۔
 گرفتہ لب۔ ۱۷۔ صفت ناخوشی۔ عاجزی یا حیرانگی وجہ سے چپ چاپ۔
 گرگ۔ (گرف، آ، ا، مذ) بھڑکا۔ جمع۔ گرگاہ۔

۱۷۔ غصہ (۸) شہوت، خواہش نفسانی (۹) آتشک کا مرض (۱۰) گرمی دہلے (۱۱) اندرونی حرارت (۱۲) پسینہ (۱۳) جوانی (۱۴) دلورہ جوش (۱۵) محبت، الفت۔

گرمی بازار - ۶ ن - ۱۰ مٹا، اردنی بازار - خرید و فروخت کی کثرت (۲) شہرت، ناموری۔

گرمی پڑنا - ۱۶۔ محاورہ، موسم گرما کا آنا۔ دھوپ آنا

گرمی پڑھ جانا - ۱۷۔ محاورہ، دماغ میں عمل آنا۔

گرمی چھا مٹنا - ۱۶۔ محاورہ، مزاج کی گرمی نکالنا، غصہ کا اظہار کرنا۔
گرمی دانے - ۱۶۔ مذہب چھوٹے چھوٹے دانے جو گرمی کے موسم میں بدن پر نکل آتے ہیں۔

گرمی سخن - ۶ ن - ۱۰ مٹا، بات کرنے کی خوبی، شعر کی تاثیر۔

گرمی سے جواب دینا - ۱۶۔ محاورہ، جھلا کر جواب دینا۔ غصہ سے جواب دینا۔

گرمی کا پھونکنے دینا - ۱۶۔ محاورہ، ایسے حد پیش ہونا۔ سنت گرمی پڑنا۔
گرمی کرنا - ۱۶۔ محاورہ، بدن میں گرمی بڑھا دینا (۲) شوخی کرنا، شرارت کرنا۔

گرمی کے دانے - ۱۶۔ مذہب گرمیوں کا موسم۔

گرمی کے سنگ - ۱۶۔ مذہب، ہلکے رنگ جو گرمی کے موسم میں پہنے جاتے ہیں مثلاً لکا گلابی، آبی، آگری، بادامی، پیازی، فشتاخی، دودھیہ۔

گرمی کے کپڑے - ۱۶۔ مذہب، وہ ٹھنڈی پوشاک جو موسم گرما میں پہنی جائے۔

گرمی مخصوصون - ۶ ن - ۱۰ مٹا، مضمون کی شوخی۔

گرمی نکالنا - ۱۶۔ محاورہ، حرارت دفع کرنا (۲) غصہ نکالنا۔ کسی کو مار پیٹ کرنا (۳) جماعت کی خواہش مٹانا۔

گرمی ہونا - ۱۶۔ محاورہ، گرمی پڑنا، آتشک ہونا، حرارت بڑھنا۔
گرمنا - ۱۶۔ (۱) (۲) (۳) (۴) (۵) (۶) (۷) (۸) (۹) (۱۰) (۱۱) (۱۲) (۱۳) (۱۴) (۱۵) (۱۶) (۱۷) (۱۸) (۱۹) (۲۰) (۲۱) (۲۲) (۲۳) (۲۴) (۲۵) (۲۶) (۲۷) (۲۸) (۲۹) (۳۰) (۳۱) (۳۲) (۳۳) (۳۴) (۳۵) (۳۶) (۳۷) (۳۸) (۳۹) (۴۰) (۴۱) (۴۲) (۴۳) (۴۴) (۴۵) (۴۶) (۴۷) (۴۸) (۴۹) (۵۰) (۵۱) (۵۲) (۵۳) (۵۴) (۵۵) (۵۶) (۵۷) (۵۸) (۵۹) (۶۰) (۶۱) (۶۲) (۶۳) (۶۴) (۶۵) (۶۶) (۶۷) (۶۸) (۶۹) (۷۰) (۷۱) (۷۲) (۷۳) (۷۴) (۷۵) (۷۶) (۷۷) (۷۸) (۷۹) (۸۰) (۸۱) (۸۲) (۸۳) (۸۴) (۸۵) (۸۶) (۸۷) (۸۸) (۸۹) (۹۰) (۹۱) (۹۲) (۹۳) (۹۴) (۹۵) (۹۶) (۹۷) (۹۸) (۹۹) (۱۰۰)

گرمنا - ۱۶۔ (۱) (۲) (۳) (۴) (۵) (۶) (۷) (۸) (۹) (۱۰) (۱۱) (۱۲) (۱۳) (۱۴) (۱۵) (۱۶) (۱۷) (۱۸) (۱۹) (۲۰) (۲۱) (۲۲) (۲۳) (۲۴) (۲۵) (۲۶) (۲۷) (۲۸) (۲۹) (۳۰) (۳۱) (۳۲) (۳۳) (۳۴) (۳۵) (۳۶) (۳۷) (۳۸) (۳۹) (۴۰) (۴۱) (۴۲) (۴۳) (۴۴) (۴۵) (۴۶) (۴۷) (۴۸) (۴۹) (۵۰) (۵۱) (۵۲) (۵۳) (۵۴) (۵۵) (۵۶) (۵۷) (۵۸) (۵۹) (۶۰) (۶۱) (۶۲) (۶۳) (۶۴) (۶۵) (۶۶) (۶۷) (۶۸) (۶۹) (۷۰) (۷۱) (۷۲) (۷۳) (۷۴) (۷۵) (۷۶) (۷۷) (۷۸) (۷۹) (۸۰) (۸۱) (۸۲) (۸۳) (۸۴) (۸۵) (۸۶) (۸۷) (۸۸) (۸۹) (۹۰) (۹۱) (۹۲) (۹۳) (۹۴) (۹۵) (۹۶) (۹۷) (۹۸) (۹۹) (۱۰۰)

گرمنا - ۱۶۔ (۱) (۲) (۳) (۴) (۵) (۶) (۷) (۸) (۹) (۱۰) (۱۱) (۱۲) (۱۳) (۱۴) (۱۵) (۱۶) (۱۷) (۱۸) (۱۹) (۲۰) (۲۱) (۲۲) (۲۳) (۲۴) (۲۵) (۲۶) (۲۷) (۲۸) (۲۹) (۳۰) (۳۱) (۳۲) (۳۳) (۳۴) (۳۵) (۳۶) (۳۷) (۳۸) (۳۹) (۴۰) (۴۱) (۴۲) (۴۳) (۴۴) (۴۵) (۴۶) (۴۷) (۴۸) (۴۹) (۵۰) (۵۱) (۵۲) (۵۳) (۵۴) (۵۵) (۵۶) (۵۷) (۵۸) (۵۹) (۶۰) (۶۱) (۶۲) (۶۳) (۶۴) (۶۵) (۶۶) (۶۷) (۶۸) (۶۹) (۷۰) (۷۱) (۷۲) (۷۳) (۷۴) (۷۵) (۷۶) (۷۷) (۷۸) (۷۹) (۸۰) (۸۱) (۸۲) (۸۳) (۸۴) (۸۵) (۸۶) (۸۷) (۸۸) (۸۹) (۹۰) (۹۱) (۹۲) (۹۳) (۹۴) (۹۵) (۹۶) (۹۷) (۹۸) (۹۹) (۱۰۰)

گرمنا - ۱۶۔ (۱) (۲) (۳) (۴) (۵) (۶) (۷) (۸) (۹) (۱۰) (۱۱) (۱۲) (۱۳) (۱۴) (۱۵) (۱۶) (۱۷) (۱۸) (۱۹) (۲۰) (۲۱) (۲۲) (۲۳) (۲۴) (۲۵) (۲۶) (۲۷) (۲۸) (۲۹) (۳۰) (۳۱) (۳۲) (۳۳) (۳۴) (۳۵) (۳۶) (۳۷) (۳۸) (۳۹) (۴۰) (۴۱) (۴۲) (۴۳) (۴۴) (۴۵) (۴۶) (۴۷) (۴۸) (۴۹) (۵۰) (۵۱) (۵۲) (۵۳) (۵۴) (۵۵) (۵۶) (۵۷) (۵۸) (۵۹) (۶۰) (۶۱) (۶۲) (۶۳) (۶۴) (۶۵) (۶۶) (۶۷) (۶۸) (۶۹) (۷۰) (۷۱) (۷۲) (۷۳) (۷۴) (۷۵) (۷۶) (۷۷) (۷۸) (۷۹) (۸۰) (۸۱) (۸۲) (۸۳) (۸۴) (۸۵) (۸۶) (۸۷) (۸۸) (۸۹) (۹۰) (۹۱) (۹۲) (۹۳) (۹۴) (۹۵) (۹۶) (۹۷) (۹۸) (۹۹) (۱۰۰)

گرمنا - ۱۶۔ (۱) (۲) (۳) (۴) (۵) (۶) (۷) (۸) (۹) (۱۰) (۱۱) (۱۲) (۱۳) (۱۴) (۱۵) (۱۶) (۱۷) (۱۸) (۱۹) (۲۰) (۲۱) (۲۲) (۲۳) (۲۴) (۲۵) (۲۶) (۲۷) (۲۸) (۲۹) (۳۰) (۳۱) (۳۲) (۳۳) (۳۴) (۳۵) (۳۶) (۳۷) (۳۸) (۳۹) (۴۰) (۴۱) (۴۲) (۴۳) (۴۴) (۴۵) (۴۶) (۴۷) (۴۸) (۴۹) (۵۰) (۵۱) (۵۲) (۵۳) (۵۴) (۵۵) (۵۶) (۵۷) (۵۸) (۵۹) (۶۰) (۶۱) (۶۲) (۶۳) (۶۴) (۶۵) (۶۶) (۶۷) (۶۸) (۶۹) (۷۰) (۷۱) (۷۲) (۷۳) (۷۴) (۷۵) (۷۶) (۷۷) (۷۸) (۷۹) (۸۰) (۸۱) (۸۲) (۸۳) (۸۴) (۸۵) (۸۶) (۸۷) (۸۸) (۸۹) (۹۰) (۹۱) (۹۲) (۹۳) (۹۴) (۹۵) (۹۶) (۹۷) (۹۸) (۹۹) (۱۰۰)

گرمنا - ۱۶۔ (۱) (۲) (۳) (۴) (۵) (۶) (۷) (۸) (۹) (۱۰) (۱۱) (۱۲) (۱۳) (۱۴) (۱۵) (۱۶) (۱۷) (۱۸) (۱۹) (۲۰) (۲۱) (۲۲) (۲۳) (۲۴) (۲۵) (۲۶) (۲۷) (۲۸) (۲۹) (۳۰) (۳۱) (۳۲) (۳۳) (۳۴) (۳۵) (۳۶) (۳۷) (۳۸) (۳۹) (۴۰) (۴۱) (۴۲) (۴۳) (۴۴) (۴۵) (۴۶) (۴۷) (۴۸) (۴۹) (۵۰) (۵۱) (۵۲) (۵۳) (۵۴) (۵۵) (۵۶) (۵۷) (۵۸) (۵۹) (۶۰) (۶۱) (۶۲) (۶۳) (۶۴) (۶۵) (۶۶) (۶۷) (۶۸) (۶۹) (۷۰) (۷۱) (۷۲) (۷۳) (۷۴) (۷۵) (۷۶) (۷۷) (۷۸) (۷۹) (۸۰) (۸۱) (۸۲) (۸۳) (۸۴) (۸۵) (۸۶) (۸۷) (۸۸) (۸۹) (۹۰) (۹۱) (۹۲) (۹۳) (۹۴) (۹۵) (۹۶) (۹۷) (۹۸) (۹۹) (۱۰۰)

گرمنا - ۱۶۔ (۱) (۲) (۳) (۴) (۵) (۶) (۷) (۸) (۹) (۱۰) (۱۱) (۱۲) (۱۳) (۱۴) (۱۵) (۱۶) (۱۷) (۱۸) (۱۹) (۲۰) (۲۱) (۲۲) (۲۳) (۲۴) (۲۵) (۲۶) (۲۷) (۲۸) (۲۹) (۳۰) (۳۱) (۳۲) (۳۳) (۳۴) (۳۵) (۳۶) (۳۷) (۳۸) (۳۹) (۴۰) (۴۱) (۴۲) (۴۳) (۴۴) (۴۵) (۴۶) (۴۷) (۴۸) (۴۹) (۵۰) (۵۱) (۵۲) (۵۳) (۵۴) (۵۵) (۵۶) (۵۷) (۵۸) (۵۹) (۶۰) (۶۱) (۶۲) (۶۳) (۶۴) (۶۵) (۶۶) (۶۷) (۶۸) (۶۹) (۷۰) (۷۱) (۷۲) (۷۳) (۷۴) (۷۵) (۷۶) (۷۷) (۷۸) (۷۹) (۸۰) (۸۱) (۸۲) (۸۳) (۸۴) (۸۵) (۸۶) (۸۷) (۸۸) (۸۹) (۹۰) (۹۱) (۹۲) (۹۳) (۹۴) (۹۵) (۹۶) (۹۷) (۹۸) (۹۹) (۱۰۰)

گرمنا - ۱۶۔ (۱) (۲) (۳) (۴) (۵) (۶) (۷) (۸) (۹) (۱۰) (۱۱) (۱۲) (۱۳) (۱۴) (۱۵) (۱۶) (۱۷) (۱۸) (۱۹) (۲۰) (۲۱) (۲۲) (۲۳) (۲۴) (۲۵) (۲۶) (۲۷) (۲۸) (۲۹) (۳۰) (۳۱) (۳۲) (۳۳) (۳۴) (۳۵) (۳۶) (۳۷) (۳۸) (۳۹) (۴۰) (۴۱) (۴۲) (۴۳) (۴۴) (۴۵) (۴۶) (۴۷) (۴۸) (۴۹) (۵۰) (۵۱) (۵۲) (۵۳) (۵۴) (۵۵) (۵۶) (۵۷) (۵۸) (۵۹) (۶۰) (۶۱) (۶۲) (۶۳) (۶۴) (۶۵) (۶۶) (۶۷) (۶۸) (۶۹) (۷۰) (۷۱) (۷۲) (۷۳) (۷۴) (۷۵) (۷۶) (۷۷) (۷۸) (۷۹) (۸۰) (۸۱) (۸۲) (۸۳) (۸۴) (۸۵) (۸۶) (۸۷) (۸۸) (۸۹) (۹۰) (۹۱) (۹۲) (۹۳) (۹۴) (۹۵) (۹۶) (۹۷) (۹۸) (۹۹) (۱۰۰)

گرمنا - ۱۶۔ (۱) (۲) (۳) (۴) (۵) (۶) (۷) (۸) (۹) (۱۰) (۱۱) (۱۲) (۱۳) (۱۴) (۱۵) (۱۶) (۱۷) (۱۸) (۱۹) (۲۰) (۲۱) (۲۲) (۲۳) (۲۴) (۲۵) (۲۶) (۲۷) (۲۸) (۲۹) (۳۰) (۳۱) (۳۲) (۳۳) (۳۴) (۳۵) (۳۶) (۳۷) (۳۸) (۳۹) (۴۰) (۴۱) (۴۲) (۴۳) (۴۴) (۴۵) (۴۶) (۴۷) (۴۸) (۴۹) (۵۰) (۵۱) (۵۲) (۵۳) (۵۴) (۵۵) (۵۶) (۵۷) (۵۸) (۵۹) (۶۰) (۶۱) (۶۲) (۶۳) (۶۴) (۶۵) (۶۶) (۶۷) (۶۸) (۶۹) (۷۰) (۷۱) (۷۲) (۷۳) (۷۴) (۷۵) (۷۶) (۷۷) (۷۸) (۷۹) (۸۰) (۸۱) (۸۲) (۸۳) (۸۴) (۸۵) (۸۶) (۸۷) (۸۸) (۸۹) (۹۰) (۹۱) (۹۲) (۹۳) (۹۴) (۹۵) (۹۶) (۹۷) (۹۸) (۹۹) (۱۰۰)

گرمنا - ۱۶۔ (۱) (۲) (۳) (۴) (۵) (۶) (۷) (۸) (۹) (۱۰) (۱۱) (۱۲) (۱۳) (۱۴) (۱۵) (۱۶) (۱۷) (۱۸) (۱۹) (۲۰) (۲۱) (۲۲) (۲۳) (۲۴) (۲۵) (۲۶) (۲۷) (۲۸) (۲۹) (۳۰) (۳۱) (۳۲) (۳۳) (۳۴) (۳۵) (۳۶) (۳۷) (۳۸) (۳۹) (۴۰) (۴۱) (۴۲) (۴۳) (۴۴) (۴۵) (۴۶) (۴۷) (۴۸) (۴۹) (۵۰) (۵۱) (۵۲) (۵۳) (۵۴) (۵۵) (۵۶) (۵۷) (۵۸) (۵۹) (۶۰) (۶۱) (۶۲) (۶۳) (۶۴) (۶۵) (۶۶) (۶۷) (۶۸) (۶۹) (۷۰) (۷۱) (۷۲) (۷۳) (۷۴) (۷۵) (۷۶) (۷۷) (۷۸) (۷۹) (۸۰) (۸۱) (۸۲) (۸۳) (۸۴) (۸۵) (۸۶) (۸۷) (۸۸) (۸۹) (۹۰) (۹۱) (۹۲) (۹۳) (۹۴) (۹۵) (۹۶) (۹۷) (۹۸) (۹۹) (۱۰۰)

گرم کال تھن، جگت اُستاد، شیر، مفسد (۹) ہوشیار، غرائظ۔
گرد و گرد کہ چیلنا - ۱۶۔ مثل، ایک سے ایک بڑھ کر۔
گرد کڑھی دہے اور چیلے شکر موٹے - ۱۶۔ مثل، اُستاد دیسے کے دیسے

رہی رہے نیکن شاگرد اور چیلے بہت آگے بڑھ گئے۔
گرد کھفتال - ۱۰۔ ۵۶۔ مذہب بہت بڑا اُستاد۔ سب کا پیر (۲) بد ماسلوں کا سرغز بہت بڑا چالاک - غرائظ۔

گردا - ۱۰۔ ۵۶۔ (۵) صف، بھاری (۲) ہزوری (۳) معزز - بڑا۔
گروپ - (Group) ۱۶۔ (۱) مذہب، جماعت - مجمع - حلقہ۔
درجہ - کئی چیزوں کا مجموعہ۔

گروہ - ۱۰۔ ۵۶۔ (۱) مذہب، بہار، کوہ - پریت۔
گرومر - (Grocer) ۱۶۔ (۱) مذہب، سر، ۱۶۔ (۱) مذہب، پنساری، بقال، جھوٹی چھوٹی دوائیں یا مسالے پیچنے والا۔

گروسری - (Grocery) ۱۶۔ (۱) مذہب، روس، ری، ۱۶۔ (۱) پنساری کی دکان یا پیشہ (۲) پنساری کا سامان۔
گروٹی - ۱۰۔ ۵۶۔ (۱) مذہب، حاط عورت، گاجھن۔

گروہ - ۱۰۔ ۵۶۔ (۱) مذہب، جمع، ۱۶۔ (۱) غول۔
بندگی کی جماعت (۳) نوع، قسم - دوسرے ذات۔
گردہ بندی - ۱۰۔ ۵۶۔ (۱) مذہب، گورنا، جماعت قائم کرنا۔

گردوی بیگدی، (۱) مذہب، رہن، وہ چیز جو گردوی کی ہو۔
گردوی پتھر - ۱۰۔ ۵۶۔ (۱) مذہب، پتھر نامہ۔
گردی دار - ۱۰۔ ۵۶۔ (۱) مذہب، وہ شخص جس کے پاس کوئی چیز کسی شرط کے اظہار پر

ولیس لینے کو رکھی گئی ہو۔
گردی رکھنا - ۱۶۔ محاورہ، رہن رکھنا۔
گردی سے چھڑانا - ۱۶۔ محاورہ، رہن سے نکالنا۔ نکل رہن کرنا۔

گردی - ۱۰۔ ۵۶۔ (۱) مذہب، ایک قسم کا کیڑا جو فصلوں کو گگ جانتا ہے جس سے وہانہ نہیں پڑتا۔
گردوی کی - ۱۰۔ ۵۶۔ (۱) مذہب، رعیت، میلان، فریضگی۔
گردویہ - ۱۰۔ ۵۶۔ (۱) مذہب، عاشق، عاشق۔
گردویہ ہونا - ۱۶۔ محاورہ، عاشق دھندا ہونا۔ دلدانہ ہونا، مرنا۔ کسی پر جان

دینا، ۲۔ سر ہونا، دلچے ہونا۔
گردہ - ۱۰۔ ۵۶۔ (۱) مذہب، ستارہ (۲) ہندو جوتش کے موافق ان نو ستاروں کو کہتے ہیں (۱) سورج (۲) چاند (۳) منگل (۴) بدھ (۵) برہسپت (۶) شکر (۷) سینچر (۸) راجو (۹) کہتے۔

گردہ آنا - ۱۶۔ محاورہ، بڑا ستارہ آنا۔ نحوست آنا، ادا بار آنا۔
گردہ پتھر - ۱۰۔ ۵۶۔ (۱) مذہب، اچھے ٹپ، جھلک کا تازا کچہ - گن کھنڈی۔
گردہ - ۱۰۔ ۵۶۔ (۱) مذہب، کاغذ، عقدرہ (۲) جیب، پاکٹ (۳) گز کا سولہواں حصہ - قریباً بین انگل کی چوڑائی (۴) راکر، موڑ (۵) کدورت - رنج (۶) ۱۶۔ (۱) مذہب، سداہ، گھٹی (۲) بند کا آخری شعر۔

گردہ ہونا - ۱۶۔ محاورہ، رہن کرنا، کسی چیز کو نقدی کے عوض فاسن رکھنا۔
گردنا مرنا - ۱۰۔ ۵۶۔ (۱) مذہب، رہن نامہ کہنے رکھنے کا تمسک۔
گرد ہونا - ۱۶۔ محاورہ، گردی ہونا۔

گرد - ۱۰۔ ۵۶۔ (۱) مذہب، رہن، گینے، گردی، ۱۶۔ (۱) مطیع - مبتلا (۳) (۴) شرط - بازی۔
گرد و کرنا - ۱۱۔ محاورہ، رہن کرنا، کسی چیز کو نقدی کے عوض فاسن رکھنا۔
گردنا مرنا - ۱۰۔ ۵۶۔ (۱) مذہب، رہن نامہ کہنے رکھنے کا تمسک۔

گرد ہونا - ۱۶۔ محاورہ، گردی ہونا۔
گردو - ۱۰۔ ۵۶۔ (۱) مذہب، پیر و مرشد (۲) بزرگ (۳) اُستاد - معلم

گردہ باز - ۱۰۔ ۵۶۔ (۱) مذہب، ایک قسم کا بوتر جو پر بازمین تلاباز یاں کھلنے

گرہ (Gravy) - رگ - ری، (10-6) - مش (مغز تخم، ۲) - کھویا - ناریل کا مغز کھوپڑا۔ (۳) - گودا - بھیجا۔

گرہ (Gravy) - رگ - ری، (10-6) - مش (مغز تخم، ۲) - کھویا - ناریل کا مغز کھوپڑا۔ (۳) - گودا - بھیجا۔

گرہ (Gravy) - رگ - ری، (10-6) - مش (مغز تخم، ۲) - کھویا - ناریل کا مغز کھوپڑا۔ (۳) - گودا - بھیجا۔

گرہ (Gravy) - رگ - ری، (10-6) - مش (مغز تخم، ۲) - کھویا - ناریل کا مغز کھوپڑا۔ (۳) - گودا - بھیجا۔

گرہ (Gravy) - رگ - ری، (10-6) - مش (مغز تخم، ۲) - کھویا - ناریل کا مغز کھوپڑا۔ (۳) - گودا - بھیجا۔

گرہ (Gravy) - رگ - ری، (10-6) - مش (مغز تخم، ۲) - کھویا - ناریل کا مغز کھوپڑا۔ (۳) - گودا - بھیجا۔

گرہ (Gravy) - رگ - ری، (10-6) - مش (مغز تخم، ۲) - کھویا - ناریل کا مغز کھوپڑا۔ (۳) - گودا - بھیجا۔

گرہ (Gravy) - رگ - ری، (10-6) - مش (مغز تخم، ۲) - کھویا - ناریل کا مغز کھوپڑا۔ (۳) - گودا - بھیجا۔

گرہ (Gravy) - رگ - ری، (10-6) - مش (مغز تخم، ۲) - کھویا - ناریل کا مغز کھوپڑا۔ (۳) - گودا - بھیجا۔

گرہ (Gravy) - رگ - ری، (10-6) - مش (مغز تخم، ۲) - کھویا - ناریل کا مغز کھوپڑا۔ (۳) - گودا - بھیجا۔

گرہ (Gravy) - رگ - ری، (10-6) - مش (مغز تخم، ۲) - کھویا - ناریل کا مغز کھوپڑا۔ (۳) - گودا - بھیجا۔

گرہ (Gravy) - رگ - ری، (10-6) - مش (مغز تخم، ۲) - کھویا - ناریل کا مغز کھوپڑا۔ (۳) - گودا - بھیجا۔

گرہ (Gravy) - رگ - ری، (10-6) - مش (مغز تخم، ۲) - کھویا - ناریل کا مغز کھوپڑا۔ (۳) - گودا - بھیجا۔

گرہ (Gravy) - رگ - ری، (10-6) - مش (مغز تخم، ۲) - کھویا - ناریل کا مغز کھوپڑا۔ (۳) - گودا - بھیجا۔

گرہ (Gravy) - رگ - ری، (10-6) - مش (مغز تخم، ۲) - کھویا - ناریل کا مغز کھوپڑا۔ (۳) - گودا - بھیجا۔

گرہ (Gravy) - رگ - ری، (10-6) - مش (مغز تخم، ۲) - کھویا - ناریل کا مغز کھوپڑا۔ (۳) - گودا - بھیجا۔

گرہ (Gravy) - رگ - ری، (10-6) - مش (مغز تخم، ۲) - کھویا - ناریل کا مغز کھوپڑا۔ (۳) - گودا - بھیجا۔

گرہ (Gravy) - رگ - ری، (10-6) - مش (مغز تخم، ۲) - کھویا - ناریل کا مغز کھوپڑا۔ (۳) - گودا - بھیجا۔

گرہ (Gravy) - رگ - ری، (10-6) - مش (مغز تخم، ۲) - کھویا - ناریل کا مغز کھوپڑا۔ (۳) - گودا - بھیجا۔

گرہ (Gravy) - رگ - ری، (10-6) - مش (مغز تخم، ۲) - کھویا - ناریل کا مغز کھوپڑا۔ (۳) - گودا - بھیجا۔

گرہ باندھنا۔ گرہ میں باندھنا۔ ۱۱۔ مجاورہ کسی بات کو یاد رکھنے کیلئے رومان یا پڑی دینے میں کانٹھ دینا، کسی چیز کو اپنے نابالوں سنبھال کر رکھنا

گرہ بر۔ ۱۶۔ صف (جیب کترا۔ وہ شخص جو لوگوں کی جیب کتر کر مال نکالے۔

گرہ بڑنا۔ گرہ بڑھانا۔ ۱۶۔ مجاورہ (گانٹھ بڑانا، لہجینا، ۲) دل کی محبت میں ذوق آنا، دشمنی ہونا، عداوت ہونا

گرہ ٹولنا۔ ۱۶۔ مجاورہ (مال و دولت کی طلب ظاہر کرنا، ۲) دوسرے کا مال لینے کی کوشش کرنا۔

گرہ دار۔ ۱۶۔ صف (بہت سی گانٹھوں والا، گنٹھیللا۔

گرہ دینا۔ ۱۶۔ مجاورہ (گانٹھ لگانا، یاد رکھنا۔

گرہ سے جاننا۔ ۱۶۔ مجاورہ (اپنی جیب سے خرچ ہونا۔ ذاتی نقصان ہونا۔

گرہ کا دیکھنے پر ضامن نہ ہو جیسے۔ ۱۶۔ مثل (کسی کی ضمانت نہ دیکھنے ضامن ہونے کی نسبت گرہ سے روپیہ دے دینا، بہتر۔

گرہ کا کھونا۔ ۱۶۔ مجاورہ (اپنا نقصان کرنا۔

گرہ کٹ۔ گرہ کاٹ۔ ۱۶۔ صف (جیب کترا۔

گرہ کشا۔ ۱۶۔ صف (گانٹھ کھولنے والا۔ مشکل کشا

گرہ کھلنا۔ ۱۶۔ مجاورہ (عقدہ وا ہونا، ۲) جیب کا کترا جانا۔ ذاتی نقصان ہو جانا۔

گرہ کھولنا۔ ۱۶۔ مجاورہ (گانٹھ کھولنا، عقدہ فاکرنا، ۲) دل کی کدورت نکال دینا۔ ریش دور کرنا۔

گرہ کاٹھ میں۔ ۱۶۔ تابع فعل (قبضے میں کسی کے پاس۔

گرہ گیر۔ ۱۶۔ صف (بل کھائے ہوئے، مٹا ہوا، پیچیدہ۔

گرہ لگانا۔ ۱۶۔ مجاورہ (گانٹھ باندھنا، ۲) مصرع پر دوسرا مصرع لگانا۔ (۳) دل میں ریش ڈالنا۔

گرہ میں۔ ۱۶۔ تابع فعل (قبضے میں، تحویل میں، پاس۔

گرہ میں باندھنا۔ ۱۶۔ مجاورہ (قبضے میں کرنا، ۲) یاد رکھنا۔

گرہ میں پیسہ (مال) ہونا۔ ۱۶۔ مجاورہ (مالدار ہونا، ۲) دولت مند ہونا۔

گرہ میں کوڑھی، ہمیں اور بازار کی سیر۔ ۱۶۔ مثل (منفلی میں امیرینہ وضع اختیار کرنا۔

گرہ لگانا۔ ۱۶۔ مجاورہ (تھیں بچھ دوڑ ہونا، مشکل حل ہونا۔

گرہ ہست۔ ۱۶۔ (۱۰-۵) - مش (عیالدار، قبیل داری، دنیا داری، خاندان۔

گرہستن۔ رگ - زحص، (۱۰-۵) - مش (۱۰، زوجہ، بیوی، ۲) سگھڑ

سلیقہ شمار۔

گرہ ہستی۔ رگ - زحص، (۱۰-۵) - مش (زیادار، عیالدار، گھر والا۔

گرہ کن۔ رگ - زحص، (۱۰-۵) - مش (گن، ۲) کسوف، خسوف، سورج پہ چاند کا

یا چاند پر زمین کا سایہ ہو جانے سے ان کا سیاہ نظر آنا۔

گرہ کن لگانا۔ ۱۶۔ مجاورہ (سورج یا چاند میں اندھیرا ہونا، ۲) داغ لگانا۔

عیب لگانا۔

گرہ گری۔ رگ - زحص، (۱۰-۵) - مش (گھاس کا اتھار۔

گرہ گری۔ رگ - زحص، (۱۰-۵) - مش (گود کی بڑی پینے کی چربی۔

گ۔ گ۔

گوط۔ ۱۰۶۔ مذ اگنے کا جہا ہوارس۔ قند سیاہ (۲)، مٹھاس۔ خمیرنی۔
 گور (۳)، میٹھا۔ خمیر۔
 گورابند۔ ۱۱۔ مذ اگڑے خمیرے میں پکانی ہوئی کچے آموں کی پھانکیں۔
 گوروصانی۔ بھنے ہوئے چادرلوں یا گیسوں میں گڑھلا کر بنائے ہوئے مرٹھے۔
 ایک قسم کی مٹھائی۔
 گورویے مرے توڑ ہریوں دیکھئے۔ گڑھے سے جو مرے
 توڑ ہریوں دو۔ ۱۱۔ مثل ا جو کام آسانی اور نرمی سے نکل سکے اس
 درمیں سختی نہیں چاہیئے۔
 گورودینا۔ ۱۷۔ محاورہ (میٹھی میٹھی باتیں کرنا) (۲) بوسہ دینا۔
 گڑ کا شکر۔ ۱۷۔ مذ اگڑا کھبت گاڑھا شربت (۲) راب۔
 گڑ کھلیا (کھلیا) میں چھوٹا۔ ۱۷۔ محاورہ (کسی ظاہر کرنے والے کا کام پڑیہ
 طے پڑھانا، کوئی خفیہ مشورہ کھل جانا۔
 گڑ کھلیا، کھلیا میں چھوٹا۔ چھپ کر کوئی کام کرنا، ناممکن کام کرنا۔
 گڑ کھٹانا اور کھٹکوں سے پر تیز کرنا۔ ۱۷۔ مثل (چھوٹی بڑائی سے چننا اور
 بڑی بڑائی کا خیال نہ کرنا۔
 گڑ کھانے کا اور اندھیرے میں اگے گا۔ ۱۱۔ مثل (نفع کی امید پر تکلیف
 بھی برداشت کرے گا۔
 گڑ کی جوتی۔ (مثل ا) اس موقع پر بولتے ہیں جب کسی چیز کے ناماب بھنے
 پر عزیز لوگ اس کی شکل تک دیکھتے تو ترسیں مگر امیر لوگ اُسے
 بے توجہ استعمال کریں۔
 گڑ لینا۔ (محاورہ) بوسہ لینا۔ چومنا (ق)۔
 گڑ نہ دے تو گڑھی بات تو کہئے۔ ۱۱۔ مثل (کوئی اچھا کام نہ کرے تو نرمی سے
 بول کر کسی غرض کر دو۔
 گڑ ہو گا تو کھلیاں بھی آئیں گی۔ ۱۱۔ مثل (دولت ہوگی تو بہتر سے یار
 بن جائیں گے۔
 گڑار اگ۔ ۱۰۱۔ مذ ا بڑا پولا (۲) ڈھیر۔ کھلیاں (۳) فعل (گڑا بصد
 سے فعل ماضی مطلق۔
 گڑا بٹائی۔ ۱۱۔ مثل (انماج وغیرہ کی وہ تقسیم جو اندازے سے انبار لگا
 کر کی جائے۔
 گڑا او با مال۔ ۱۷۔ مذ (وہ مال جو دفن کیا گیا ہو۔
 گڑے مر دے اکھاڑنا۔ ۱۱۔ محاورہ (جڑانے تھے دہرنا (۲) جھولی
 بھری بات کو چھیننا (۳) مسے ہونے بڑوں کے عیب نکالنا۔
 گڑا لو۔ رگ۔ ٹرا۔ گڑ (۱-۵)۔ مذ (گڑا ہوا تمباکو۔ بنا ہوا تمباکو۔ پینے
 کا تمباکو۔
 گڑا ہونا۔ ۱۱۔ محاورہ (وبا ہونا۔ دفن ہونا۔
 گڑ بڑ۔ (گڑ بڑ) (۱-۵)۔ مثل (پیٹ کے پونے کی آواز) (۲) جھمیلا بکھیرنا۔
 انرا کفری۔ بے انتظامی۔ کھل پٹی رہا (گڑ بڑ۔

گھر سے اکثر بھاگ جاتے والا۔
 گریز کرنا۔ ۱۱۔ مص مرکب (بھاگنا، فرار کرنا) (۲) پیریز کرنا (۳) متنفر ہونا۔
 گریزاں۔ رگ۔ رسے۔ زراں) (۶) صفت (بھاگنے والا۔ بھاگتا
 ہوا۔ متنفر۔
 گریس۔ (Grease) رگ۔ ریس، اگ۔ ۱۰۔ مثل (چربی۔ چکنائی۔ روغن
 ایک بیماری جو کھوڑے کے پیروں میں ہوا جاتی ہے۔
 گریک۔ (Greek) رگ۔ ریک (اگ)۔ ۱۰۔ مذ (مٹ، یونانی۔ یونان کا
 باشندہ (۲) یونانی زبان۔
 گرگیل۔ رگ۔ ریل، (۱-۵)۔ مذ (وہ آدمی جو سستی کے باعث کسی بکر پڑا رہے (۲) (۵)
 کو توڑ جو ریل کے مکان پر گئے۔
 گریمر۔ (Grammar) رگ۔ نرے، ر (اگ)۔ ۱۰۔ مثل (صرف رنجو۔
 قواعد زبان (۲) صرف دعوئی کتاب۔
 گریمرین۔ (Grammarian) رگ۔ نرے سے۔ ر۔ رین (اگ)۔ ۱۰۔ مذ
 قواعد زبان کا جاننے والا۔ ماہر صرف رنجو۔
 گرین۔ (Grain) رگ۔ رین (اگ)۔ ۱۰۔ مثل (تخم (۲) اناج۔ جلتے۔
 (۳) دانہ۔ رین۔ بکر پڑا، بڑھ رتی کا ایک ذرہ (۵) نہایت خفیف تھدار۔
 گرین۔ (Green) رگ۔ رین (اگ)۔ ۱۰۔ مثل (صفت) سبز۔ ہرا۔
 گرینٹ۔ رگ۔ رینٹ (۱-۵)۔ ۱۰۔ مثل (وہ لکڑی جس پر کونوئس کی چرخی
 چلتی ہے۔
 گرینڈ۔ (Grand) رگ۔ رینڈ (اگ)۔ ۱۰۔ مثل (صفت) بڑا۔ عظیم (۲) عالیشان۔
 خوبصورت (۳) عالی ظرف۔ عالی حوصلہ۔
 گرینڈ۔ (Gernade) رگ۔ رے رینڈ (اگ)۔ ۱۰۔ مذ (چھوٹا م کا گولا۔
 پتھر لولا۔
 گریر۔ رگ۔ ریر (۱-۶)۔ ۱۰۔ مذ (دانا۔ پیتا۔ آہ و زاری کرنا۔
 گریر شادی۔ رگ۔ ۱۰۔ مذ (خوشی کی حالت میں رونا۔
 گریر شبنم۔ (۱-۵)۔ ۱۰۔ مذ (اُس گڑنا۔
 گریر شمع۔ (۱-۶)۔ ۱۰۔ مذ (موم کے قطرے جو موم تپتی کے جلنے سے گرتے ہیں۔
 گریر ششم۔ (۱-۶)۔ ۱۰۔ مذ (شرب کا ہر اسی سے جام میں کرنا۔
 گریر کرنا۔ ۱۱۔ مص مرکب (رونا۔ پیتا۔ دادیلا کرنا۔ ماتم کرنا۔ آنسو پانا۔
 گریر کٹال۔ رگ۔ رگ۔ رگ۔ پیتا۔ نالاں۔ گریاں۔
 گریر مستانہ۔ (۱-۵)۔ ۱۰۔ مذ (خراب کی مستی میں رونا۔
 گریر مند (تاگ)۔ (۱-۶)۔ ۱۰۔ مثل (صفت) روتے والا۔
 گریر و زاری۔ (۱-۶)۔ ۱۰۔ مثل (دادیلا۔ کہرام۔ آہ و بکا۔
 رونا پیتا۔
 گرے ہاؤنڈ۔ (Grey Hound) رگ۔ ۱۰۔ ۱۰۔ مذ (کے کی ایک
 نسل جس کے پاؤں لمبے ہوتے ہیں۔ انکھیں تیز ہوتی ہیں اور دبا جاتا
 ہوتا ہے۔ شکاری کتا۔

گرگڑ جھاللا - (۱۔ مذم) میتھ اور آندھی ۲، بد نظمی۔
 گرگڑ نخرنا - (۱۱۔ محاورہ) پیٹ بولنا ۲، گدگد کرنا مال گول کرنا (۳)۔
 جھکڑا جھیلانا۔
 گرگڑ پانا۔ گرگڑ ب۔ ٹا۔ نا، ۱۱۔ مصم گھبرانا۔ پریشان ہونا۔
 گرگڑ بڑا ہسٹ۔ گرگڑ ب۔ ٹا۔ ہسٹ (۱۱۔ ۵۱۔ ۱۔ مرث) ۱۱۔ گرگڑ ب۔
 افراتفری۔
 گرگڑ پٹائی۔ (تی۔ صف) دہشت مند۔
 گرگڑ بڑی۔ (گرگڑ ب۔ ٹی ۱۱۔ ۵۱۔ ۱۔ مرث) کھلی۔ افراتفری۔
 بد انتظامی۔
 گرگڑ ب۔ رگ۔ ٹپ (۱۱۔ ۵۱۔ ۱۔ مرث) جلدی سے کسی ملائم چیز میں
 چمکس جانے کی آواز۔ غرغرا ۱۲، جھٹ۔
 گرگڑ پنکھ۔ (۱۱۔ ۵۱۔ ۱۔ مذم) بڑے بڑے پردوں والا پرندہ (۲)۔ ڈھیلی بوتلک
 سینے والا آدمی۔
 گرگڑ تی۔ (گرگڑ تی۔ تی۔ ۱۱۔ ۱۔ مذم) ساتھی۔ دوست۔ یار۔
 گرگڑ جانا۔ (گرگڑ جانا۔ ۱۱۔ ۵۱۔ ۱۔ مصم) دھن جانا ۲، دب جانا ۳، نہایت شرمندہ
 ہونا ۴، قائم ہونا ۵، دھجما دھجما ہونا۔ ارجمانا۔
 گرگڑ دینا۔ (تی۔ مصم) سرونا۔
 گرگڑ ریا۔ رگ۔ ٹی۔ یا۔ ۱۱۔ ۵۱۔ ۱۔ مذم) جدواہا۔ گڈ ریا۔ بھیتوں کو پالنے اور
 چرانے والا۔
 گرگڑ کوٹ۔ (گرگڑ کوٹ۔ تی۔ ۱۱۔ ۱۔ مذم) قلعہ۔
 گرگڑ کھا۔ (گرگڑ کھا۔ تی۔ ۱۱۔ ۱۔ مذم) پاجامہ۔
 گرگڑ ج۔ (گرگڑ ج۔ ۱۱۔ ۵۱۔ ۱۔ مذم) قلعہ کا وہ بروج جس پر توپیں نصب
 کی جاتی ہیں۔
 گرگڑ لڑ۔ (گرگڑ لڑ۔ ۱۱۔ ۵۱۔ ۱۔ مرث) پیٹ کے بولنے کی آواز (۲)۔
 یہ جھپٹنے کی آواز۔
 گرگڑ لڑ کرنا۔ (۱۱۔ محاورہ) پیٹ بولنا۔ آنتوں کا بولنا ۲، حقے کا گڑ لڑنا۔
 گرگڑ لڑا۔ (گرگڑ لڑا۔ ٹا۔ ۱۱۔ ۵۱۔ ۱۔ مذم) جھانکنا۔
 گرگڑ لڑانا۔ (گرگڑ لڑا۔ نا، ۱۱۔ ۵۱۔ ۱۔ مصم) گزینا۔ کرنا (۳)۔ توپوں کا
 لگانا جھوننا۔
 گرگڑ لڑانا۔ (گرگڑ لڑا۔ نا، ۱۱۔ ۵۱۔ ۱۔ مصم) عاجزی کرنا۔ منت کرنا خوشام
 کرنا۔ اتنا کرنا۔
 گرگڑ لڑانا۔ (گرگڑ لڑا۔ نا، ۱۱۔ ۵۱۔ ۱۔ مصم) آنتوں کا بولنا۔ پیٹ کا آواز دینا۔
 قراقرز ہونا ۲، حقے کا بولنا۔
 گرگڑ لڑا ہسٹ۔ (گرگڑ لڑا۔ ہسٹ، ۱۱۔ ۵۱۔ ۱۔ مرث) گرج۔ کرک، توپوں
 کے لگانا جھپٹنے کی آواز۔
 گرگڑ لڑا ہسٹ۔ (گرگڑ لڑا۔ ہسٹ، ۱۱۔ ۵۱۔ ۱۔ مرث) سماجیت۔
 خوشامد۔ انجانا۔
 گرگڑ لڑا ہسٹ۔ (گرگڑ لڑا۔ ہسٹ، ۱۱۔ ۵۱۔ ۱۔ مرث) پیٹ
 کے بولنے کی آواز۔
 گرگڑ لڑی۔ (گرگڑ لڑی۔ ٹی ۱۱۔ ۵۱۔ ۱۔ مرث) ایک خاص وضع کا

جھوٹا سا حقہ۔
 گرگڑ لکھیل۔ (گرگڑ لکھیل۔ بل، (تی) متفق۔
 گرگڑ لکھڑ۔ (گرگڑ لکھڑ۔ ڈر، ۱۱۔ ۵۱۔ ۱۔ مذم) جھپٹے پڑانے کیلئے۔ جیتھیلے۔
 گرگڑ لکھی۔ (گرگڑ لکھی۔ تی، ۱۱۔ ۱۔ مرث) ابا جامہ۔
 گرگڑ کے لومنتڑی جھکانا۔ (۱۱۔ محاورہ) ٹکر منہ ہونا۔ سوچا (تی)۔
 گرگڑ م۔ رگ۔ ٹیم، ۱۱۔ ۵۱۔ ۱۔ مذم) دم و دم سو برس چوٹ گنے سے ہو جائے۔
 گرگڑ م۔ رگ۔ ٹیم، ۱۱۔ ۵۱۔ ۱۔ مرث) دل دل بھجھو۔
 گرگڑ نا۔ (گرگڑ نا، ۱۱۔ ۵۱۔ ۱۔ مصم) دہنا ۲، دفن ہونا ۳، اچھینا ۴، چھنا ۵، قائم ہونا
 ۶، کھڑا ہونا ۷، شرمندہ ہونا۔
 گرگڑ نٹ۔ رگ۔ ٹرنت، ۱۱۔ ۵۱۔ ۱۔ مرث) دفینہ۔ زمین میں گڑھی ہونی چیز۔ وہ
 چیز جس پر منتر پڑھ کر زمین میں دفن کر دیا جائے۔
 گرگڑ ننگ۔ رگ۔ ٹرنگ، ۱۱۔ ۵۱۔ ۱۔ مرث) آٹھی۔ ٹوہنگ۔ بڑائی۔
 گرگڑ نکیا۔ رگ۔ ٹرنگ، ۱۱۔ ۵۱۔ ۱۔ مرث) آٹھی کھانسنے والا۔ ڈنگ ماننے والا۔ ڈنگنا۔
 گرگڑ نا۔ (گرگڑ نا، ۱۱۔ ۵۱۔ ۱۔ مذم) پانی رکھنے کا برتن۔ ٹونا۔ آنجورہ ۲، آٹا۔ ٹوٹی
 والا ۳، مسروں کے پھولوں کا گلہ رستہ۔
 گرگڑ وانا۔ (گرگڑ وانا، ۱۱۔ ۵۱۔ ۱۔ مصم) زمین میں دلوانا۔ دفن کرنا۔
 گرگڑ وانا۔ (گرگڑ وانا، ۱۱۔ ۵۱۔ ۱۔ مصم) زمین کھدوانا۔ کھیت سے گھاس نکلوانا۔
 گرگڑ وانا۔ رگ۔ ٹرول، ۱۱۔ ۵۱۔ ۱۔ مذم) ایک جھوٹی گاڑی جس پر بچے کو کھڑے
 ہو کر چلنا سکھاتے ہیں۔
 گرگڑ وانا۔ رگ۔ ٹرول، ۱۱۔ ۵۱۔ ۱۔ مصم) گاڑنا۔ گھسیٹنا ۲، سوراخ کرنا۔
 جھیندنا۔ جھینونا۔
 گرگڑھ۔ (۱۱۔ ۵۱۔ ۱۔ مذم) قلعہ۔ کوٹ۔ حصار۔ دھم۔
 گرگڑھ جیتنا۔ (۱۱۔ محاورہ) قلعہ فتح کرنا ۲، کوئی بڑا کام کرنا ۳، کسی مشکل
 یا مصیبت سے رہائی پانا۔
 گرگڑھ کیتان۔ (۱۱۔ ۵۱۔ ۱۔ مذم) جھدار ۲، حاکم قلعہ ۳، قلعوں کی مرمت
 کرنے والا۔ انسر۔ انجینیر۔
 گرگڑھا۔ (۱۱۔ ۵۱۔ ۱۔ مذم) غار ۲، کھڈ۔ کھان ۳، قبر۔ گور۔
 گرگڑھا بھرنانا۔ (۱۱۔ محاورہ) گرگڑھ کوٹھی سے پُر کرنا ۲، بڑی بھلی چیز سے پیٹ
 پُر کرنا ۳، کمی یا کھانا پورا کرنا۔
 گرگڑھا لڑت۔ (تی۔ مرث) آتا دہل جو جھبہ۔
 گرگڑھ لڑت۔ رگ۔ ٹھمت، ۱۱۔ ۵۱۔ ۱۔ مرث) گرگڑھنا۔ گرگڑھنے کا انداز۔
 گرگڑھ لڑت۔ رگ۔ ٹھمت، ۱۱۔ ۵۱۔ ۱۔ مرث) ایک درخت جس میں سبھ رنگ کے پھول
 ہوتے ہیں۔ اس کے پھولوں کا شربت بناتے ہیں۔
 گرگڑھ لڑت۔ رگ۔ ٹھمت، ۱۱۔ ۵۱۔ ۱۔ مرث) تیار کرنا۔ دھات کو گڑھ لڑت
 کر کوئی شکل دینا۔
 گرگڑھ لڑت۔ رگ۔ ٹھمت، ۱۱۔ ۵۱۔ ۱۔ مرث) شکل۔ بناوٹ ۲، بات بنانا۔
 گرگڑھ لڑت۔ رگ۔ ٹھمت، ۱۱۔ ۵۱۔ ۱۔ مرث) موٹا۔ گاڑھا۔
 گرگڑھی۔ رگ۔ ٹھی، ۱۱۔ ۵۱۔ ۱۔ مرث) جھوٹا قلعہ۔ کوٹ لڑھ کا اسم مصغر،
 گرگڑھی بھانڈنا۔ (۱۱۔ محاورہ) کار نمایاں کرنا۔ بڑی بہاری کا کام کرنا۔
 گرگڑھی ٹوٹنا۔ (۱۱۔ محاورہ) قلعہ کا شکست کھانا۔

گزر کرنا - (17- محاورہ) اتفاق سے جان لکنا، دن کا ٹسا۔ بسراوقات کرنا، پورا کرنا۔ بنا ہونا۔
گزرنے کی صورت - (11- مث) اوقات بسر کرنے کا طریقہ یا تدبیر۔
گزر گاہ - (7- صف) راستہ، سڑک۔ شارع عام، سڑک، گھاٹی۔
گزرنے کی گزراں کیا جھونپڑی کیا میدان - (17- مثل) ایشیائی عرب بہت سی زندگی گزرنے کی ہو۔ اچھا بڑا سب برابر ہے۔
گزر گیا - (11- محاورہ) بیت گیا، مر گیا۔
گزرنا مہر - (17- مذم) پروانہ، عہد داری۔
گزران - (7- گزر، مان، آواز، مش، گزارا، اوقات، بسری۔
گزران - (7- گزر، مان، آواز، مش، گزارا، اوقات، بسری۔
گزرانا، گزران - (7- گزر، مان، آواز، مش، گزارا، اوقات، بسری۔
گزرنا - (7- گزر، مان، آواز، مش، گزارا، اوقات، بسری۔
کوچ کرنا (3- اتفاق سے کسی جگہ نکل آنا، چھوڑنا، دھانسیا آنا
(4) بسر کرنا، نہا کرنا۔ موافق آنا، پار ہونا، رخصت ہونا۔
چلنا (11- دل میں سمانا۔ مرضی ہونا، حد سے بڑھ جانا، اچھی
پہن خیاں آنا، (13) بازار آنا، (14) رائیگاں جانا۔ ضائع ہونا۔
گزری - (7- گزری، ری، 07- 1- مش) شام کا بازار، (2) وہ مقام جہاں
شام کو کسی راستے کے کنارے سووا بیچنے والے آکر بیٹھ جاتے
ہیں، (3) مصیبت پیش آئی۔
گزری سوڈلی پر گزری - (17- مثل) سب صدمے دل پر اٹھائے اور زبان
سے ان تک نہ لی۔

گزرنے کی صورت - (11- مث) اوقات بسر کرنے کا طریقہ یا تدبیر۔
گزر گاہ - (7- صف) راستہ، سڑک۔ شارع عام، سڑک، گھاٹی۔
گزرنے کی گزراں کیا جھونپڑی کیا میدان - (17- مثل) ایشیائی عرب بہت
سی زندگی گزرنے کی ہو۔ اچھا بڑا سب برابر ہے۔
گزر گیا - (11- محاورہ) بیت گیا، مر گیا۔
گزرنا مہر - (17- مذم) پروانہ، عہد داری۔
گزران - (7- گزر، مان، آواز، مش، گزارا، اوقات، بسری۔
گزران - (7- گزر، مان، آواز، مش، گزارا، اوقات، بسری۔
گزرانا، گزران - (7- گزر، مان، آواز، مش، گزارا، اوقات، بسری۔
گزرنا - (7- گزر، مان، آواز، مش، گزارا، اوقات، بسری۔
کوچ کرنا (3- اتفاق سے کسی جگہ نکل آنا، چھوڑنا، دھانسیا آنا
(4) بسر کرنا، نہا کرنا۔ موافق آنا، پار ہونا، رخصت ہونا۔
چلنا (11- دل میں سمانا۔ مرضی ہونا، حد سے بڑھ جانا، اچھی
پہن خیاں آنا، (13) بازار آنا، (14) رائیگاں جانا۔ ضائع ہونا۔
گزری - (7- گزری، ری، 07- 1- مش) شام کا بازار، (2) وہ مقام جہاں
شام کو کسی راستے کے کنارے سووا بیچنے والے آکر بیٹھ جاتے
ہیں، (3) مصیبت پیش آئی۔
گزری سوڈلی پر گزری - (17- مثل) سب صدمے دل پر اٹھائے اور زبان
سے ان تک نہ لی۔

گ۔ س

گزشتہ - (7- گزشتہ، زنی، 17- 1- صف) چٹنا ہوا۔ برگزیدہ، اچھا۔
گزیر - (7- گزیر، زنی، 17- 1- صف) چارہ۔ علاج۔ اُردو میں صرف ناگزیر
کو ترکیب سے مشتمل ہے۔
گزین - (7- گزین، زنی، 17- 1- صف) پسندیدہ۔ دلچسپ، پسند
کرنے والا۔ اُردو میں صرف مرکبات میں مشتمل ہے۔ غلوت گزین
عزالت گزین۔
گس (Guess) - (انگ) 1- اندازہ۔ سرسری تخمینہ۔
گس پیپر (Guess Paper) - (انگ) 1- مذم) امتحان کا پرچہ جو تیباس
سے تیار کیا جائے۔ پرچہ سوالات جس میں تیباس سے امتحانی طرز کے
سوال دیئے جائیں۔
گستا - (7- گستا، سا، 07- 1- مذم) لقمہ۔ نوالہ۔
گسار - (7- گسار، 7- صف) دور بارش کرنے والا، (2) کھانے پینے والا۔
مرکبات میں استعمال ہوتا ہے جیسے تم گسار سے گسار۔
گسائیں - (7- گس، سا، 07- 1- مذم) گوسائیں کا مخفف۔ گایوں کا سائیں۔
گسٹا - (7- گسٹا، 7- صف) شوخ ہے ادب۔ شہر ہے شرم
گسٹا - (7- گسٹا، 7- صف) وہ شخص جس کی آنکھوں سے غضب اور
غصہ ظاہر ہو، (2) وہ شخص جس کی آفت سے آنکھ نہ بچ سکے ہے باقی
میں کامل۔
گسٹا - (7- گسٹا، 7- صف) جالاک، سبک دست۔
گسٹا - (7- گسٹا، 7- صف) بے ترقی۔ بے حیالی۔
گسٹا خانہ - (7- گسٹا، 7- صف) خانیہ۔ گسٹا، 7- صف) شوخی سے۔ گسٹا، 7- صف) شوخی سے
بے اوبانہ۔
گسٹا - (7- گسٹا، 7- صف) شوخی سے۔ گسٹا، 7- صف) شوخی سے
گسٹا - (7- گسٹا، 7- صف) شوخی سے۔ گسٹا، 7- صف) شوخی سے
گسٹا - (7- گسٹا، 7- صف) شوخی سے۔ گسٹا، 7- صف) شوخی سے

گزشتہ - (7- گزشتہ، زنی، 17- 1- صف) چٹنا ہوا۔ برگزیدہ، اچھا۔
گزیر - (7- گزیر، زنی، 17- 1- صف) چارہ۔ علاج۔ اُردو میں صرف ناگزیر
کو ترکیب سے مشتمل ہے۔
گزین - (7- گزین، زنی، 17- 1- صف) پسندیدہ۔ دلچسپ، پسند
کرنے والا۔ اُردو میں صرف مرکبات میں مشتمل ہے۔ غلوت گزین
عزالت گزین۔
گس (Guess) - (انگ) 1- اندازہ۔ سرسری تخمینہ۔
گس پیپر (Guess Paper) - (انگ) 1- مذم) امتحان کا پرچہ جو تیباس
سے تیار کیا جائے۔ پرچہ سوالات جس میں تیباس سے امتحانی طرز کے
سوال دیئے جائیں۔
گستا - (7- گستا، سا، 07- 1- مذم) لقمہ۔ نوالہ۔
گسار - (7- گسار، 7- صف) دور بارش کرنے والا، (2) کھانے پینے والا۔
مرکبات میں استعمال ہوتا ہے جیسے تم گسار سے گسار۔
گسائیں - (7- گس، سا، 07- 1- مذم) گوسائیں کا مخفف۔ گایوں کا سائیں۔
گسٹا - (7- گسٹا، 7- صف) شوخ ہے ادب۔ شہر ہے شرم
گسٹا - (7- گسٹا، 7- صف) وہ شخص جس کی آنکھوں سے غضب اور
غصہ ظاہر ہو، (2) وہ شخص جس کی آفت سے آنکھ نہ بچ سکے ہے باقی
میں کامل۔
گسٹا - (7- گسٹا، 7- صف) جالاک، سبک دست۔
گسٹا - (7- گسٹا، 7- صف) بے ترقی۔ بے حیالی۔
گسٹا خانہ - (7- گسٹا، 7- صف) خانیہ۔ گسٹا، 7- صف) شوخی سے۔ گسٹا، 7- صف) شوخی سے
بے اوبانہ۔
گسٹا - (7- گسٹا، 7- صف) شوخی سے۔ گسٹا، 7- صف) شوخی سے
گسٹا - (7- گسٹا، 7- صف) شوخی سے۔ گسٹا، 7- صف) شوخی سے
گسٹا - (7- گسٹا، 7- صف) شوخی سے۔ گسٹا، 7- صف) شوخی سے

گ۔ ف

گستاخی معاف - 11۔ روزمرہ (میری خطا معاف فرمائیے) معذرت
 گستاخگر - (گسن - تاں - گرا - ۵۱ - صف) بے وقوف بے شعور مباحث
 جاہل ناشائستہ -
 گستر - (گسن - تران - صف) پھیلانے والا - کسی چیز کی افراط کرنے والا -
 مرکبات میں مستعمل ہے جیسے گرم گستر - سن گستر -
 گستر ۵۵ - ۱۶ - صف (وہ چیز جو پھیلائی جائے) پھیلا یا ہوا -
 گسٹ (Guest) (انگ - ۱ - مذ) ہمان -
 گسٹ ہاؤس - (انگ - ۱ - مذ) ہمان خانہ -
 گسٹاپو - (Gestapo) (رگس - ٹا - پو) (انگ - ۱ - مذ) ہٹلر کے ننانے
 پیش برمنی کی فیس پیولیس -
 گسستہ - رگ - سس - تر - ۱۶ - صف (ٹوٹا ہوا) گستاہوا -
 گسستہ عثمان - ۱۶ - صف (آزاد بے لگام رہا) کھلا - بے قید -
 گسل - ۱۶ - صف (لاشعاً تباہ کرنے والا - ٹوٹنے والا - اسم کے بعد آکر)
 اسے اسم فاعل بنا دینا ہے جیسے ماں گسل -
 گسینتہ - ۱۶ - صف (ٹوٹا ہوا) خشکتہ -
 گسینتہ عثمان - ۱۶ - صف (وہ گھوڑا جس کی بجاگ ٹوٹ گئی ہو -
 کھنبتا ہے تابو -

گ۔ ش

گشت 1 - ۱۶ - صف (دور - جگہ - دورہ) پھرنا - چکر لگانا -
 گشت پھرنا - گشت کرنا - گشت لگانا - گشت مارنا - (۱۶ - محاورہ)
 دورہ لگانا - چکر لگانا -
 گشت سلامی - ۱۶ - صف (وہ نذرانہ جو حاکم کو دورے کے
 وقت دیا جاتا تھا -
 گشت کرنا - (۱۶ - محاورہ) پھرنا - دورہ کرنا - چکر لگانا -
 گشت ناجیتا - ۱۶ - محاورہ (بچپنوں کا برات کے آگے نہ پتے ہونے جانا -
 ۱۶ - برات کے ساتھ نہ پتے ہونے جانا -
 گشتا سب - (گش - تا - سب) ۱۶ - صف (۱ - مذ) ایران کے بادشاہ اسفندیار
 کا پ ۱۶ - بزرخ -
 گشتہ - ۱۶ - صف (پھرا ہوا - اٹا ہوا - بدل ہوا بنا ہوا) مرکبات میں
 استعمال ہوتا ہے جیسے برگشتہ -
 گشتی - (گش - تی) ۱۶ - صف (پھرنے والی - گشت لگانے والی) پیر پیر
 سنتری - آوارہ گردی -
 گشتی چٹھی - وہ حکم جو تمام افسروں کو بھیجا جائے -
 گشتیا - ۱۶ - مذ (جو یکبارہ ۲۱ - روزہ ۳۱ - محمول اکٹھا کرنے والا -
 گشت - (رس - ۱ - صف) سازش - ایسا میل جول جو کسی کو نقصان
 پہنچانے کے لیے کیا جائے -

گ۔ گ

گگ (Gig) (انگ - ۱ - صف) (گگ - ۱ - صف) (گگ - ۱ - صف)
 گگرا - (رگ - ۱ - صف) (گگ - ۱ - صف) (گگ - ۱ - صف)
 گگری - گگریا - (رگ - ۱ - صف) (گگ - ۱ - صف) (گگ - ۱ - صف)
 گگلی - (گگ - ۱ - صف) (گگ - ۱ - صف) (گگ - ۱ - صف)
 گگل - (گگ - ۱ - صف) (گگ - ۱ - صف) (گگ - ۱ - صف)
 گگلا - (گگ - ۱ - صف) (گگ - ۱ - صف) (گگ - ۱ - صف)
 گگلن - (رگ - ۱ - صف) (گگ - ۱ - صف) (گگ - ۱ - صف)
 گگن - (گگ - ۱ - صف) (گگ - ۱ - صف) (گگ - ۱ - صف)
 گگن - (گگ - ۱ - صف) (گگ - ۱ - صف) (گگ - ۱ - صف)
 گگن - (گگ - ۱ - صف) (گگ - ۱ - صف) (گگ - ۱ - صف)
 گگن - (گگ - ۱ - صف) (گگ - ۱ - صف) (گگ - ۱ - صف)

گ۔ ل

گگل ۱۰۵۶۔ مذم گلا کا مخفف (۲)، گگل کا مخفف (۳)، گگلی کا مخفف (۴)۔
 بات چیت (۶)، معاملہ۔
 گگل بہیمان (ریاں) ڈالنا۔ ۱۶۔ محاورہ ۲ محبت یا پیار سے گلے میں ہاتھ ڈالنا۔ ناز کرنا۔
 گگل پھڑا دیکھ پھڑا (۱)۔ مچھلی کا جڑا جس سے وہ سانس لیتی ہے (۲)۔ پرندہ کی جو پنج سے نیچے ٹھکتی ہوئی کھال۔
 گگل پھولنا۔ ۱۶۔ مذم ۱۰۔ شخص جس کے گال بھولے ہوئے ہوں۔
 گگل جھینڈا۔ ۱۰۔ ۱۱۔ مذم ۱۰۔ گلے کی گھٹی۔ گردن کی تشطیل۔
 گگل تکیہ۔ ۱۶۔ ۱۷۔ مذم ۱۰۔ جھوٹا اور گول تکیہ جو سوتے ذلت رخصاروں سے رکھتے ہیں۔
 گگل تنگ ہونا۔ ۱۶۔ محاورہ ۱ کمال بے خبر ہونا۔ غافل ہونا۔
 گگل تپنی۔ ۱۰۔ ۱۱۔ ۱۲۔ مٹا۔ بیلوں کے گلے کی رستی جو جوئے کے ساتھ ہاندھی جاتی ہے۔
 گگل جندٹا۔ ۱۰۔ ۱۱۔ ۱۲۔ مذم ۱۰۔ کپڑے کا ٹکڑا جو گلے میں لٹکا کر ضرب رسیدہ ہاتھ کو اس میں لٹکائے رکھتے ہیں۔
 گگل جوٹ۔ ۱۰۔ ۱۱۔ ۱۲۔ مذم ۱۰۔ وہ رسی جو دو بیلوں کو آپس میں جتے رہنے کے لیے باندھتے ہیں۔
 گگل خٹ۔ (گنگھ) ۱۱۔ کھتا پائی۔ باہمی تکرار۔
 گگل نور۔ ۱۰۔ ۱۱۔ ۱۲۔ مٹا ۲ پھندے دار رستی، جو مویشیوں کے گلے میں دالتے ہیں۔
 گگل دینا۔ ۱۶۔ محاورہ ۲ مچھانسی دینا (۲)، کسی چیز کو کنڈی میں لگا دینا۔
 گگل گل جو تھک ملانا۔ ۱۶۔ محاورہ ۱ منے اڑانا۔ خوشی منانا (۲)۔ ترال کھانا۔
 گگل لچا۔ ۱۰۔ ۱۱۔ ۱۲۔ مذم ۱۰۔ گلے کا لچھا۔ سہاگ لچھا۔ (ق)۔
 گگل مالہ۔ ۱۰۔ ۱۱۔ ۱۲۔ مذم ۱۰۔ گھنٹھا۔ گجراگلے کا پار۔
 گگل منجھ (منجھے)۔ ۱۰۔ ۱۱۔ ۱۲۔ مذم ۱۰۔ رخصاروں کے پاس خوب بڑھانے ہوئے بال۔
 گگل ۱۰۔ ۱۱۔ ۱۲۔ مٹا ۱۔ گارا۔ گلی مٹی (۲)۔ کچھو۔ (د)۔
 گگل اڑنی۔ ۱۰۔ ۱۱۔ ۱۲۔ مٹا ۱۔ ایک قسم کی سیاہی مائل سرخ مٹی۔
 گگل حکمت (کپڑوٹی)۔ ۱۰۔ ۱۱۔ ۱۲۔ مٹا ۱۔ مٹی اور کپڑے سے برتن کا منہ بند کرنے کا عمل تاکہ مچھاپ باہر نہ نکلنے پائے۔
 گگل حکمت کرنا۔ ۱۶۔ محاورہ ۲ مٹی اور کپڑے سے کسی چیز کا منہ بند کرنا کہ مچھاپ باہر نہ نکل سکے۔
 گگل خراسانی۔ ۱۰۔ ۱۱۔ ۱۲۔ مٹا ۱۔ کھرا مٹی۔
 گگل خورہ۔ ۱۰۔ ۱۱۔ ۱۲۔ مذم ۱۰۔ کینوا۔
 گگل درگل۔ ۱۰۔ ۱۱۔ ۱۲۔ مٹا ۱۔ مٹی میں مل کر مٹی جو جانا۔
 گگل مالہ۔ ۱۰۔ ۱۱۔ ۱۲۔ مذم ۱۰۔ ایک آلہ جس سے مٹی پیستے ہیں۔

گگل ۱۰۔ ۱۱۔ ۱۲۔ مذم ۱۰۔ پھول (۲)، جسم کو داغنے کا نشان (۳)، چراغ کی جی کا جلا ہوا یا جلتا ہو، سردی، جوتے کی اڑی کا چھوہ (۴)، معشوق (۵)، داغ۔ دھتیر (۶)، مچھانسی (۷)، تھے کا جلا ہوا تھما کو (۸)۔ وہ سفید دھتیر جو آنکھوں میں پڑ جاتا ہے (۹)، آگ سے جل جانے کا نشان۔
 گگل آفتاب۔ ۱۰۔ ۱۱۔ ۱۲۔ مذم ۱۰۔ سورج کھلی پھول۔
 گگل اگمر۔ ۱۰۔ ۱۱۔ ۱۲۔ مذم ۱۰۔ سرخ پھول۔
 گگل اشرفی۔ ۱۰۔ ۱۱۔ ۱۲۔ مذم ۱۰۔ ایک قسم کا گول پھول۔
 گگل اقبال۔ ۱۰۔ ۱۱۔ ۱۲۔ مذم ۱۰۔ پھول کھیرنے والا (۲)، ایک قسم کی آتش بازی۔
 گگل پھول پھول (۳)۔ خوش گھنٹا (۴)۔
 گگل اشتافی کرنا۔ ۱۱۔ محاورہ ۲ خوش بیانی سے باتیں کرنا (۲)، طعن و طنز کرنا (۳)۔
 گگل انار۔ ۱۰۔ ۱۱۔ ۱۲۔ مذم ۱۰۔ انار کا پھول (۲)، سرخ۔ لال۔ ارغوانی رنگ (۳)، ایک قسم کا انار کا درخت جس میں پھول نہیں نکلتا۔ صرف پھول ہی نکلتے ہیں۔
 گگل اندام۔ ۱۰۔ ۱۱۔ ۱۲۔ مٹا ۱۔ پھول کے سے جسم والا۔ معشوق۔
 گگل ادینگ۔ ۱۰۔ ۱۱۔ ۱۲۔ مذم ۱۰۔ ایک قسم کا پھول جو گھنڈی کی وضع کا ہوتا ہے ایک قسم کا گنڈا۔
 گگل ہار (گلاب)۔ ۱۰۔ ۱۱۔ ۱۲۔ مٹا ۱۔ پھول برسانے والا۔
 گگل ہارسی۔ پھول برسانا۔
 گگل ہاری۔ ۱۰۔ ۱۱۔ ۱۲۔ مٹا ۱۔ پھولوں کا کھیل جس میں پھول ایک دوسرے کی طرف پھینکتے ہیں۔
 گگل بانگ۔ ۱۰۔ ۱۱۔ ۱۲۔ مٹا ۱۔ چھاب۔ بیل کی آواز (۲)، شادی کی دھوم دھام (۳)۔ کانٹور (۳)، نرہ جنگ (۴)، نوٹھنڈی۔ شردہ۔
 گگل بدن۔ ۱۰۔ ۱۱۔ ۱۲۔ مٹا ۱۔ پھول جسے نازک بدن والا معشوق۔ ایک قسم کا دھابا دار رستی کپڑا۔
 گگل برگ۔ ۱۰۔ ۱۱۔ ۱۲۔ مذم ۱۰۔ گلاب کی جی۔ گلاب کی پتھڑی (۲)، نازک اندام۔ معشوق۔
 گگل بکاؤلی۔ ۱۰۔ ۱۱۔ ۱۲۔ مذم ۱۰۔ سفید رنگ کا ایک خوشبودار پھول جس کے پودے کا رنگ ہلدی کی طرح زرد ہوتا ہے۔
 گگل کلبین۔ ۱۰۔ ۱۱۔ ۱۲۔ مذم ۱۰۔ گلاب کا پودا (۲)، گلاب کے پودے کی جڑیں کسی درخت کا دھتیر جو زمین کے ساتھ لگا ہوتا ہے۔
 گگل بو۔ ۱۰۔ ۱۱۔ ۱۲۔ مٹا ۱۔ پھول کی خوشبو۔
 گگل بوٹا۔ ۱۰۔ ۱۱۔ ۱۲۔ مذم ۱۰۔ پھول اور اس کا پودا (۲)، بیل بوٹا۔ زیب و زینت۔
 گگل بوٹے جمانا۔ ۱۱۔ محاورہ ۲ پھول بوٹے زیب سے اگانا۔
 گگل بیگانہ۔ ۱۰۔ ۱۱۔ ۱۲۔ مذم ۱۰۔ خود پھول جننگلی پھول۔
 گگل پالوش۔ گل کھش۔ ۱۰۔ ۱۱۔ ۱۲۔ مذم ۱۰۔ پھول جو ایشیم یا کلا تون سے بنا کر ڈھانچہ جوتوں پر مٹانکتے ہیں۔
 گگل پلاس۔ ۱۰۔ ۱۱۔ ۱۲۔ مذم ۱۰۔ ڈھاک کا پھول جو سرخ ہوتا ہے۔
 گگل پوش۔ ۱۰۔ ۱۱۔ ۱۲۔ مذم ۱۰۔ پھولوں سے چھپا ہوا۔ بہت پھول نکلے ہوئے۔

گل پھولوں کا لباس پہننے ہوئے۔
 گل پھولنا۔ ۱۶۔ محاورہ پھول کھلنا اور کوئی عجیب بات ظہور میں آنا۔
 گل پیادہ۔ ۱۰۔ مذم۔ وہ گلاب جس میں خوشبو نہیں ہوتی۔
 سدا گلاب۔
 گل پیر بہن۔ ۶۔ ن۔ نصف پھولوں کے سے لباس والا۔ مشرق۔
 گل پیروہی۔ ۶۔ ن۔ ۱۔ مٹا ۱۱۔ پیراہن کا پھول کی طرح ہونا۔
 نراکت۔
 گل پھینکنا۔ ۱۶۔ محاورہ ایک دوسرے کو پھول ماننا۔
 گل تر۔ ۱۔ ن۔ ۱۔ مذم ۱۱۔ تازہ پھول (۲) سینوں کا چہرہ۔ حسین
 مشوق۔
 گل تراش۔ ۶۔ ن۔ ۱۔ مذم ۱۱۔ تراش کی جی تپنے کی تیغی۔ ٹنگی۔
 گل تراشتا۔ ۱۶۔ محاورہ ۲۔ بتی یا شمع کا عطا ہوا حصہ قینچی یا کلنگی
 سے الگ کرنا۔
 گل تسبیح۔ ۱۔ ن۔ ۱۔ مذم ۱۱۔ تسبیح کا امام جو تمام دانوں کے اوپر
 ہدایا جاتا ہے۔
 گل جھڑی۔ ۱۔ ن۔ ۱۔ مذم ۱۱۔ ایک قسم کا زرد پھول جو گیندے کے مشابہ
 ہوتا ہے (۲) زرد رنگ۔
 گل جھڑنا۔ ۱۶۔ محاورہ ۳۔ چراغ یا سگریٹ کی راکھ گزانا (۲) درخت
 سے پھولوں کا اڑنا اور گزنا۔
 گل جاننی۔ ۱۔ ن۔ ۱۔ مذم ۱۱۔ ایک قسم کا سفید پھول جو چاندنی رات
 میں کھلتا ہے۔ گل بہتا ہے۔
 گل جشم۔ ۶۔ ن۔ نصف وہ شخص جس کی آنکھ میں پھلی یا سفیدی ہو۔
 گل چکال۔ ۶۔ ن۔ ۱۔ مذم ۱۱۔ جوا کا پھول۔
 گل تھرہ۔ ۶۔ ن۔ نصف پھول جیسے چہرے والا۔ مشوق۔
 گل چھڑی۔ ۱۱۔ مذم ۱۱۔ پھولوں کی چھڑی۔
 گل چیس۔ ۶۔ ن۔ نصف پھول توڑنے والا۔ مالی۔ باغبان۔
 گل خیال۔ ۶۔ ن۔ ۱۔ نصف اوجھتے والا۔ چنگا۔ جیتی دار۔
 گل خطمی۔ گل خیر۔ ۶۔ ن۔ ۱۔ مذم ۱۱۔ نیلے رنگ کا ایک پھول جو بطور
 دوا استعمال ہوتا ہے۔
 گل خن۔ ۶۔ ن۔ ۱۔ مذم ۱۱۔ بھیٹی۔ نور جو لہار (۲) کوڑا کرکٹ۔
 گل خن افروز۔ ۶۔ ن۔ نصف پھولوں کے والے۔
 گل خندان۔ ۶۔ ن۔ نصف پھول ہونا۔
 گل خندہ۔ ۶۔ ن۔ ۱۔ مذم ۱۱۔ مٹا کھول کر ہنسنے۔ قہقہہ۔
 گل خود رو۔ ۶۔ ن۔ ۱۔ مذم ۱۱۔ ایسے پھول جو جنگل اور باغ کے لواحق
 میں خود بخود آئیں۔
 گل خود روہ۔ ۶۔ ن۔ نصف اداع کھانے ہوئے۔
 گل دار۔ ۶۔ ن۔ نصف وہ چیز جس پر پھول بنے ہوں (۲) داغ
 دار۔ دھبے دار۔
 گل دام۔ ۶۔ ن۔ ۱۔ مذم ۱۱۔ پھولوں کا جال (۲) جال (۳) پنجرہ۔
 گل دان۔ ۶۔ ن۔ ۱۔ مذم ۱۱۔ پھول دان۔ پھولوں کا گلڈستہ رکھنے

رہ کا برتن۔
 گل داؤدی۔ ۶۔ ن۔ ۱۔ مذم ۱۱۔ ایک قسم کا پھول۔
 (Chrysanthemum)
 گل دستہ۔ ۱۔ ن۔ ۱۔ مذم ۱۱۔ پھولوں کی ٹہنیوں کا مجموعہ پھولوں کا گچا (۲) طاق
 یا حجاب جہاں اذان پور (۲) غزلوں کا رسالہ یا مجموعہ۔
 گل دستہ بانڈھنا۔ ۱۶۔ محاورہ ۳۔ پھولوں کا خاص طریقے سے سمانا۔
 گل دم۔ ۶۔ ن۔ ۱۔ مذم ۱۱۔ بلبیل کی قسم کا ایک پرنڈہ جس کی دم کے نیچے
 سرخ نشان پڑتا ہے۔
 گل دوپہری۔ گل دوپہریا۔ ۱۔ ن۔ ۱۔ مذم ۱۱۔ ایک قسم کا پھول جو دوپہر
 کو کھلتا ہے۔ سورج مٹتی۔
 گل ڈوز۔ ۶۔ ن۔ نصف وہ چیز جس پر پھول پوسے کر دے ہوں۔
 گل دیگر شکفت۔ ۶۔ ن۔ ۱۔ مذم ۱۱۔ ایک اور نئی بات ظہور میں آئی۔ ایک
 اور پھول کھلا۔
 گل دینا۔ ۱۶۔ محاورہ ۳۔ جسم کو داغنا۔ پچانسی پر چلانا (۲) حق،
 گل رخ۔ گل رخسار۔ ۶۔ ن۔ نصف وہ شخص جس کا چہرہ یا رخسار گلاب کی
 طرح سرخ ہوں۔ خوبصورت۔ مشوق۔
 گل رعنا۔ ۶۔ ن۔ ۱۔ مذم ۱۱۔ ایک قسم کا سرخ اور زرد پھول (۲) مشوق۔
 گل رنگ۔ ۶۔ ن۔ نصف جس کا رنگ سرخ ہو۔ لال۔ ارغوانی۔
 گل رگ۔ ۶۔ ن۔ نصف گلاب کے سے چہرے والا۔ خوبصورت۔
 مشوق۔
 گل ریز۔ ۶۔ ن۔ ۱۔ مذم ۱۱۔ کپڑا جس پر سرخ پھول کڑھے ہوئے ہوں (۲) ایک قسم
 کی آئینہ بازی پھلجھڑی۔ خزاں کا موسم۔
 گل ریزی۔ ۶۔ ن۔ ۱۔ مٹا ۱۱۔ پھولوں کا جھڑنا (۲) پھلجھڑی (۳)
 خوش بیانی۔
 گل زار۔ ۶۔ ن۔ ۱۔ مذم ۱۱۔ باغ۔ گلشن۔ پھولاری (۲) رونق۔
 گلزار ابراہیم (خلیل)۔ ۶۔ ن۔ ۱۔ مذم ۱۱۔ وہ آگ جس میں نمرود نے
 حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو ڈال دیا تھا اور وہ خدا کے حکم سے
 سرد ہو کر باغ بن گئی تھی۔
 گلزار خالی (قالبین)۔ ۶۔ ن۔ ۱۔ مذم ۱۱۔ وہ پھول بولنے جو قالبین پر بنے
 ہوئے ہوں۔
 گل زمیں۔ ۶۔ ن۔ ۱۔ مٹا ۱۱۔ زمین کا سرسبز اور شاداب قطعہ (۲)
 قطعہ زمین۔
 گلستان۔ ۶۔ ن۔ ۱۔ مذم ۱۱۔ باغ۔ گلزار۔ چمن۔ پھولاری (۲) شیخ سعدی کی
 مشہور کتاب کا نام۔
 گل سرا۔ گل سہرا۔ ایک زلیو جو شادی شدہ عورتیں گلے میں پہنتی ہیں (۲)
 گل سرسید۔ ۶۔ ن۔ ۱۔ مذم ۱۱۔ سب سے اچھا پھول۔ کنا تیا کھمہ
 منتقہ۔
 گل سورا۔ ۱۶۔ مذم ۱۱۔ سورج مکھی پھول (۲)۔
 گل سوئی۔ ۶۔ ن۔ ۱۔ مٹا ۱۱۔ ایک بہت خوشبودار گلاب۔
 گل سوسن۔ ۶۔ ن۔ ۱۔ مذم ۱۱۔ سہلی رنگ کا ایک پھول۔

گل شنب انروز۔ ۱-۱- مذرات کو کھینے والے ایک پھول
 گل کا نام۔
 گل شنبو۔ ۱-۱- مذرات ایک پھول جو رات کے وقت خوشبو دیتا ہے۔
 گل شنبو ریشم، شب بول، شب تو خوشبو دینے والا۔
 گل تندر۔ ۱-۱- مذرات گل تندر۔
 گل شمع۔ ۱-۱- مذرات شمع کا گل، شمع کی لو۔
 گل شین۔ ۱-۱- مذرات باغ، پھولاری جیسی گلزار، باغ۔
 گلشن آرا۔ ۱-۱- صفت، باغبان، باغ کو سجانے والا۔
 گلشن ایجاد۔ ۱-۱- مذرات دنیا۔
 گل صدر برگ۔ ۱-۱- مذرات گیندے کا پھول۔
 گل عباسی۔ ۱-۱- مذرات ایک پھول کا نام۔
 گل عذار۔ ۱-۱- مذرات پھول جیسے رنساڑوں والا۔ لال لال گالوں
 والا اور خوبصورت۔
 گل فام (گل فام)۔ ۱-۱- صفت، پھول کے سے رنگ والا۔
 گل فشان، گل افشانی۔ ۱-۱- صفت، پھول جھاڑنا۔
 (۲) خوش بیانی۔
 گل قند۔ ۱-۱- مذرات ایک دو ابو گلاب کے پھولوں کو شکر میں
 ملا کرتے ہیں۔
 گل کار۔ ۱-۱- مذرات نقاشی کا کام کرنے والا۔
 گل کاری۔ ۱-۱- صفت، نقاشی، بیل بوٹے کا کام۔
 گل کرتنا۔ ۱-۱- محاورہ، پھول تراشنا، گلکاری کرنا (۲) جلی ہوئی جی
 کو کاٹنا، جی کا جلا ہو سرا بھاڑنا (۳) عجیب و غریب کام کرنا (۴)
 شرارت کرنا (۵) انوکھی بات کرنا (۶) اتہام لگانا۔
 گل کدہ۔ ۱-۱- مذرات باغ، پھولاری۔
 گل کرنا۔ ۱-۱- محاورہ، چراغ، بچھانا، دیبا بچھانا۔
 گل کھانا۔ مسد کرنا (۲) تنگ کرنا (۳) باغ باقی ہونا
 گل کھلانا۔ ۱-۱- محاورہ، پھول کھلانا (۲) فساد کھڑا کرنا، آفت لانا، کوئی عجیب
 مزید اور انوکھا کام کرنا (۳) الزام دینا، جہت دھرنا۔
 گل کھلنا۔ ۱-۱- محاورہ، پھول کا شگفتہ ہونا (۲) کوئی نئی یا انوکھی بات
 ظاہر ہونا (۳) مسجد کھلنا (۴) دھوم مچنا (۵) فساد مچنا ہونا (۶)
 طوفان اٹھنا، بہتان لگانا۔
 گل کیس۔ ۱-۱- مذرات ایک پھول کا نام۔
 گل گشت۔ ۱-۱- صفت، باغ کی سیر، سیاحت۔
 گل گول۔ ۱-۱- صفت، گلاب کی طرح شریخ رنگ کا (۲) چالاک گول۔
 گل گونہ۔ ۱-۱- مذرات غار، رنگین سنوف جیسے عورتیں خوبصورتی کے
 لیے چہرے پر ملتے ہیں۔ آئینا، پاؤڈر۔
 گل گیر۔ ۱-۱- مذرات شمع یا چراغ کی جی کرتنے کی تہنی۔
 گل لالہ۔ ۱-۱- مذرات ایک قسم کا شریخ پھول۔
 گل لٹہ۔ ۱-۱- مذرات کو تھیں کا پھول۔

گل مشکلی۔ ۱-۱- مذرات ایک سیاہ رنگ کا خوشبودار پھول۔
 گل مہندی۔ ۱-۱- مذرات ایک مشہور پھول، ہانسی۔
 گل شیخ۔ ۱-۱- مذرات ایک موٹی ٹیل جس کے اوپر موٹا سا پھول بنا ہوتا
 ہے (۲) موٹی ٹیل۔
 گلنار۔ ۱-۱- مذرات انار کا مختلف (۲) گلنار کا پھول۔ گلنار
 کا درخت۔ انار سے مشابہ ہوتا ہے۔ اس میں پھل نہیں آتا
 (۳) شریخ رنگ والا۔
 گل ناشگفتہ۔ ۱-۱- مذرات گل۔ غنچہ (۲) کواری لڑکی۔
 گل نافرمان۔ ۱-۱- مذرات آدھے رنگ کا پھول۔
 گل نسیم۔ ۱-۱- مذرات جنگلی گلاب، سیوٹی۔
 گل نشاط۔ ۱-۱- مذرات شراب۔
 گل نیلوفر۔ ۱-۱- مذرات کنول۔
 گل ونبیل۔ ۱-۱- مذرات عاشق و معشوق۔
 گل ولالہ۔ ۱-۱- مذرات معشوق لوگ (۲) طوائف، درباب نشاط۔
 گل سزارہ۔ ۱-۱- مذرات ایک قسم کا بہت سی بگھڑیوں والا
 پھول۔ گیندا۔
 گل ہونا۔ چراغ، جھنڈا (۲) رتی، تھم ہونا (۳) عزت کا گر جانا۔
 گل ۱-۱- صفت، کوئی کا مختلف (۲) گل کھڑا (۳) تھیل (۴) عقدہ۔
 گل بھٹی۔ گل بھڑی (۲) صفت، گرہ درگرہ تنگ (۳) تنگ، بل (۴) کدورت
 طلال طبع، ایک آتش بازی کا نام۔
 گل چیرے۔ ۱-۱- مذرات لطف، عیش، مزہ۔
 گل خنجرے اڑانا۔ ۱-۱- محاورہ، خوب عیش کرنا (۲) منہ اڑانا (۳)
 دولت برباد کرنا۔
 گلا۔ دگ، لانا، صفت، لگا ہوا، خوب لگا ہوا (۲) بوسیدہ۔ بے جان (۳) سڑا
 ہوا (۴) بچھلا ہوا۔
 گلا سڑا۔ ۱-۱- صفت، بوسیدہ، دکھا، خراب۔
 گلا۔ دگل، لانا، لانا (۲) دکاندار کا بھری کی نقدی رکھنے کا برتن (۳) اندج، دانج
 نڈ (۴) جلنے، ضرور۔ پاختا۔
 گلا۔ دگ، لانا، لانا (۲) مذرات گلہ، حلق، آواز۔ سڑا، گریبان۔
 گلا آنا۔ ۱-۱- محاورہ، حلق کے گوسے کا درم کر جانا، گلے میں جھالا یا درم ہو
 جانا، گلے میں درد ہونا۔
 گلا اٹھانا۔ ۱-۱- محاورہ، حلق کے اندر کو سے کو درمال یا انگوٹھے سے دبانا تاکہ
 وہ اپنی جگہ پر آجائے، بچوں کے نالو کو انگوٹھے سے اٹھانا۔
 گلا بلانا۔ ۱-۱- محاورہ، گولیوں کا گانے کے وقت گلے میں آواز
 کو گردش دینا۔
 گلا بند ہو جانا۔ ۱-۱- محاورہ، آواز بیٹھ جانا۔
 گلا بندھانا۔ ۱-۱- محاورہ، قرض لینا، مقروض ہونا (۲) ذمہ دار ہونا۔ اپنے
 اوپر بوجھ لینا (۳) نکاح پر چلنا، آزادی چھٹا رہنا، ضروری اخراجات
 روک کر جمع کرنا۔
 گلا بندھنا۔ ۱-۱- محاورہ، قرض دار ہونا، مقروض ہونا۔

گلا بیٹھ جانا۔ گلا پڑ جانا۔ ۱۶۔ محاورہ ۲ آواز کا بھاری ہو جانا۔ آواز بھڑا جانا۔
 گلا پکڑنا۔ ۱۶۔ محاورہ ۱ گھون پکڑنا (۲)۔ کسی چیز کھانے سے گلے میں تکلیف ہونا (۳)۔ تنگ کرنا۔ ستانا۔
 گلا چھڑانا۔ ۱۶۔ محاورہ ۱ زور سے بولنا بیخ کر بولنا۔ چلانا۔
 گلا چھنا سنا۔ ۱۶۔ محاورہ ۱ کسی چیز سے گلا دبانا (۲)۔ قرض میں جتنا ہونا۔
 گلا چھٹ جانا۔ ۱۶۔ محاورہ ۲ آواز کا زور سے نکلنا (۲)۔ آواز کا بے زور ہونا۔
 گلا بھڑنا۔ ۱۶۔ محاورہ ۲ آواز کا حسب مراد گانے میں بھڑنا۔
 گلا پھولنا۔ ۱۶۔ محاورہ ۱ گلہ پھولنا۔ گلا سوجنا۔ گلے میں ورم ہونا۔
 گلا خشک ہونا۔ ۱۶۔ محاورہ ۱ گلے میں رطوبت باقی نہ رہنا (۲)۔ پیاس لگنا۔
 گلا دا بٹنا۔ ۱۶۔ محاورہ ۱ گلے کو دبانا (۲)۔ بولنے سے روکنا۔
 گلا دباننا۔ ۱۶۔ محاورہ ۱ گلا کھنڈنا۔ سانس روکنا (۲)۔ بات کرنے سے روکنا۔
 گلا دبا جانا۔ ۱۶۔ محاورہ ۲ ظلم ہونا۔ زبردستی کی جانا (۲)۔ بولنے سے روکا جانا۔
 گلا کاٹ مرنا۔ ۱۶۔ محاورہ ۱ خودکشی کرنا۔
 گلا کاٹنا۔ ۱۶۔ محاورہ ۱ سر قلم کرنا۔ قتل کرنا (۲)۔ حق دباننا۔ زبردستی کسی کا حق لینا (۳)۔ ظلم کرنا۔ شکنج کرنا۔
 گلا کاٹی۔ ۱۶۔ سنٹ۔ سازگی سے جتا جتنا ایک باجا۔
 گلا کھٹانا۔ گلا کھٹانا۔ ۱۶۔ محاورہ ۱ مقتول ہونا۔
 گلا کھل جانا۔ ۱۶۔ محاورہ ۱ اچھی ہوئی آواز کا صاف ہو جانا۔
 گلا کھولنا۔ ۱۱۔ محاورہ ۱ گلے کا پھیندنا (۲)۔ کرنا (۲)۔ گلے کی آواز صاف ہونا۔
 گلا کھٹنا۔ ۱۶۔ محاورہ ۱ گلا پھینا۔ گلا دینا۔
 گلا کھونٹ کے سلا دینا۔ ۱۱۔ محاورہ ۱ گلا کھونٹ کے مار دینا۔
 گلا کھونٹنا۔ ۱۶۔ محاورہ ۱ گلا دباننا۔ بولنے نہ دینا۔
 گلا ملانا۔ ۱۱۔ محاورہ ۱ آواز ملانا۔
 گلے باز۔ ۱۱۔ صفت۔ خوش آواز۔ اچھی آواز والا۔
 گلے بندھنا۔ ۱۱۔ محاورہ ۱ ذمے پڑنا۔ بلا خواہش کسی چیز کا سر پڑنا (۲)۔ کسی ناپسند عورت کا نکاح میں آنا۔
 گلے پر پھیری پھیرنا۔ ۱۱۔ محاورہ ۱ گلے پر پھیری پھیرنا۔ بہت ظلم کرنا۔
 گلے پر خنجر پھیرنا۔ ۱۱۔ محاورہ ۱ گلے پر خنجر پھیرنا۔
 گلے پڑنے سے۔ ۱۶۔ محاورہ ۱ گلے پر خنجر پھیرنا۔ خواہ مخواہ گلے پڑنے سے۔
 گلے پڑنا۔ ۱۶۔ محاورہ ۱ ذمے پڑنا (۲)۔ پیچھے پڑنا (۲)۔ زبردستی چھٹے جانا۔

۱۶۔ بلا خواہش نکاح ہونا (۲)۔ بغیر خواہش یا مرضی کے کوئی چیز دینا۔
 گلے پڑنے کا سودا۔ ۱۳۔ مثل ۱ زبردستی کا سودا جو برابر سر شدھا جائے۔
 گلے تک بھڑنا۔ ۱۶۔ محاورہ ۱ کسی طرف کو پورا پورا بھڑنا۔
 گلے تک پانی ہونا۔ ۱۱۔ محاورہ ۱ ڈوب جانے کے قریب ہونا۔
 گلے دراز۔ ۱۶۔ ۱۰۔ صفت ۱ زبان دراز۔ جالاک (۲)۔
 گلے سے اترنا۔ ۱۶۔ محاورہ ۱ حلق سے اترنا۔ نکلنا۔ سمجھ میں آنا۔
 گلے کا تعویذ بنانا۔ ۱۱۔ محاورہ ۱ کمال حفاظت سے رکھنا (۲)۔ ہر وقت ساتھ رکھنا۔
 گلے کا توڑا۔ ۱۶۔ مذہنگے میں سینے کی سونے کی زنجیر۔
 گلے کا جوڑا۔ ۱۶۔ مذہ ۱۰ لباس جو زیب تن ہورے۔
 گلے کا ہار۔ ۱۶۔ ۱۰۔ ایک زیور جو گلے میں پستا جاتا ہے (۲)۔ وہ پتھر جو ہر وقت ماں سے پیٹا رہے (۳)۔ ناگوار خاطر۔ اجیرن (۴)۔ وہ جو کسی وقت جلدنا پڑے (۵)۔ نہایت عزیز۔ پیارا۔
 گلے کا ہار ہونا۔ ۱۱۔ محاورہ ۱ چمٹنا۔ پیچھے پڑنا (۲)۔ وبال جان ہونا (۲)۔ بار خاطر ہونا۔
 گلے کی رگیں ٹھیلانا۔ ۱۶۔ محاورہ ۱ غصے ہونا۔ ناراض ہونا۔
 گلے گلے۔ ۱۶۔ ۱۰۔ تین نسل (۲)۔ گلے تک۔
 گلے گلے پانی۔ ۱۱۔ مذہ ۱۰ استنایاتی جس میں آدمی کی گردن ڈوب جائے۔
 گلے لگانا۔ ۱۶۔ محاورہ ۱ چھاتی سے لگانا۔ پیار کرنا۔ چھٹانا (۲)۔ زبردستی کوئی چیز ڈسے لینا۔
 گلے لگ کر رونا۔ ۱۶۔ محاورہ ۱ مل کر رونا۔ درد مندوں کا باہم مل کر رونا۔
 گلے لگنا۔ ۱۱۔ محاورہ ۱ ہنگامہ ہونا۔ چھاتی سے لگنا۔ لپٹنا۔ چمٹنا۔
 گلے ملنا۔ ۱۶۔ محاورہ ۱ ہم آغوش ہونا۔ گلے لگنا (۲)۔ صفائی کرنا۔ سلوک کرنا (۳)۔ ملاقات کرنا۔
 گلے ملنا دینا۔ ۱۶۔ محاورہ ۱ صلہ کروا دینا۔ صفائی کر دینا۔ رنجش دور کرنا۔
 گلے رٹھنا۔ ۱۱۔ محاورہ ۱ زبردستی کوئی چیز گلے ڈالنا۔ حوالے کرنا۔
 گلے میں اگنا۔ گلے میں پھینا۔ ۱۶۔ محاورہ ۱ بد مزہ یا ناپسند کھانے کا حلق سے نیچے ڈالنا۔
 گلے میں پانی ٹپکانا۔ ۱۱۔ محاورہ ۱ دم نکلنے وقت حلق میں پانی جوانا۔
 گلے میں جان اٹھنا۔ ۱۶۔ محاورہ ۱ نزع کا عالم ہونا۔
 گلے میں زنجیر پڑنا۔ ۱۱۔ محاورہ ۱ بیاہ ہونا (۲)۔ بند ہونا۔ مقید ہونا۔
 گلے میں طوق پڑنا۔ ۱۱۔ محاورہ ۱ دلوں سے کا زنجیروں سے جکڑا جانا (۲)۔ مصیبت میں مبتلا ہونا (۳)۔ کسی کی غلامی کرنا۔
 گلے میں کانٹے پڑنا۔ ۱۱۔ محاورہ ۱ حلق خشک ہونا۔
 گلے میں گرہ ہونا۔ ۱۶۔ محاورہ ۱ آواز نہ نکلنا۔
 گلے میں گھنگر و بولنا۔ ۱۶۔ محاورہ ۱ نزع کا وقت ہونا۔

گلے میں ہاتھ ڈالنا - ۱۶۔ محاورہ) گردن میں ہاتھ ڈال کر تقاضا کرنا۔
 گلے میں ہڑی نہیں - ۱۶۔ محاورہ) آواز نہایت دلکش ہے گلے میں ماہر ہے۔
 گلاب - رنگ سلاب، ۱۶۔ ف - ۱۰۔ مذا) ایک پھول، ۲۰۔ گلاب کا پودا، ۳۰۔ گلاب کے پھولوں کا عرق۔
 گلاب پاش - ۱۶۔ ف - ۱۰۔ مذا) وہ صراحی نما برتن جس میں عرق گلاب بھرا کر پھرتے ہیں۔
 گلاب جامن - ۱۶۔ مذا) ایک قسم کا جامن جس میں گلاب کی سی خوشبو سرائی ہے، ۲۰۔ مذا) ایک قسم کی مٹھائی جس کا رنگ جامن کی طرح ہوتا ہے۔
 گلاب بھجوانا - ۱۱۔ محاورہ) گلاب کا عرق نکلوانا۔
 گلاب بھیننا - ۱۶۔ محاورہ) گلاب کا عرق نکالنا۔
 گلاب کی تپتی - گلاب کی پتکھڑی - ۱۶۔ مذا) ایک گل، ۲۰۔ لب نازک معشوق کے ہونٹ۔
 گلاب برنگل - آہ، ۱۶۔ ف - ۱۰۔ مذا) گانا بھجانا۔
 گلانی - رنگ سلاب، ۱۶۔ ف - ۱۰۔ مذا) ایک قسم کے پھول کی طرح ہلکے سرخ کا۔
 ۲۰۔ مشراب کی بوتل، مشراب کا گلاس - ساغر۔
 گلانی آنکھ - ۱۶۔ مذا) شرمیلی آنکھ۔
 گلانی اردو - ۱۶۔ مذا) اردو تحریر کا وہ اسلوب جسے ملا رموزی نے رواج دیا۔
 گلانی لوش - دلف بھف، وہ شخص جو گلانی لباس زیب تن ہو۔
 گلانی جٹا - ۱۳۔ مذا) ہلکا جٹا۔ سردی کے ابتدائی اور آخری دن۔
 گلانا - ۵۶۔ مذا) گولائی، گول ہونا۔
 گلاس - (Glass) رنگ سلاب، ۱۶۔ انگ - ۱۶۔ مذا) پانی پینے کا برتن پیالہ، ساغر، ایک قسم کا بخورہ، ۲۰۔ شیشہ، کاغذ، ۳۰۔ آئینہ۔
 گلال - رنگ لال، ۵۶۔ مذا) ایک قسم کا سرخ مضمون جو بولی کے دلوں میں ہندو لوگ ایک دوسرے پر پھوڑا کر خوشی مناتے ہیں، ۲۰۔ سگھڑے کا باریک پیالہ ہوا آنا جس میں مختلف قسم کے رنگ ملتے ہیں۔
 گلال بالائی - ۱۶۔ مذا) وہ شاہی باغ جو شاہی محل کے ملحق ہو، ۲۰۔ وہ باغ جو بڑے مکان کے ملحق ہو۔
 گلال چشم - ۱۶۔ صفا) سرخ آنکھوں والا۔
 گلالا - رنگ لال، ۱۶۔ مذا) پھول کا زیرہ۔
 گلانا - رنگ سلاب، ۵۶۔ مذا) پھلانا، ۲۰۔ گوشت ترکاری وغیرہ کو پکا کر نرم کرنا، ۳۰۔ سترانا، ۳۰۔ بیماری یا نعم کا بدن کو دھلکا کر دینا۔
 ۵۶۔ ضائع کرنا، ۲۰۔ بوسیدہ کرنا۔
 گلادوا - گلاب، رنگ سلاب، ۱۶۔ مذا) ایک چمچ۔ دلدار، گارا۔
 مٹی میں پانی ملا ہوا - لیب پوت۔
 گلادوٹ - رنگ سلاب، ۱۶۔ مذا) گلانے کی اہلیت، تحلیل۔ وہ چیز جس سے گوشت وغیرہ گل جائے۔

گلاؤ - رنگ سلاب، ۵۶۔ مذا) صفحہ، کفن والا۔ جلد سڑنے والا پھل۔
 گلانی - رنگ سلاب، ۵۶۔ مذا) گولائی، گولایا، گول ہونا۔
 گلائیڈر - (Glider) رنگ سلاب، ۵۶۔ مذا) ایک قسم کا ہوائی جہاز جو انجن کے بغیر چلے۔
 گلگتھی - رنگ سلاب، ۵۶۔ مذا) اچھے ہونے، نرم پاؤں (۲)۔ صفت، ملائم، نرم۔
 گلگٹ - (Gilt) رنگ سلاب، ۱۰۔ مذا) ملمع کا پتہ یا پانی (۲)، ظاہری خوبصورتی اور برکی سجاوٹ۔
 گلگٹ - رنگ سلاب، ۵۶۔ مذا) بڑی گٹھی، نرم۔
 گلگٹی - رنگ سلاب، ۵۶۔ مذا) گٹھی، گڑھ، ۲۰۔ غدود (۳)، گلے کے اندر کا چھوڑا۔
 گلڈ - (Guild) رنگ سلاب، ۱۰۔ مذا) ہم پیشہ لوگوں کی انجمن۔
 جماعت، یونین۔
 گلڈ ڈاگ - (Bull Dog) بل ڈاگ، ۱۶۔ کٹورا، ۱۰۔ مذا) بڑے جڑوں والا ایک قسم کا شکاری کتا، بل ڈاگ۔
 گلیسرین - (Glycerine) رنگ سلاب، ۱۰۔ مذا) ایک قسم کا شکاری کتا، بل ڈاگ۔
 بے رنگی، مٹی اور سیال شے جو چکمانی سے تیار ہوتی ہے اور تیل یا دودھ کے طور پر استعمال ہوتی ہے۔
 گلڈن - رنگ سلاب، ۱۶۔ مذا) بھیاوڑا۔
 گلنگل - رنگ سلاب، ۱۶۔ مذا) ایک قسم کا بڑا اور لمبوترانہ جو سرخ۔
 گلگلا - رنگ سلاب، ۵۶۔ مذا) ایک قسم کا مٹی کا کھان جو مٹی یا پتھیا چوڑا۔
 گلگلا - رنگ سلاب، ۵۶۔ صفا) گلیا، گلیا، نرم، نرم۔
 گلگلا نا - رنگ سلاب، ۵۶۔ مذا) مٹی، نرم کرنا، پھلانا۔
 گلگلا ہٹ - رنگ سلاب، ۵۶۔ مذا) نرمی، ملائمت (۲)۔ نرم کرنے کا فعل۔
 گلگلی - رنگ سلاب، ۵۶۔ مذا) گلگلا کا اسم تصغیر۔ چھوٹا گلگلا۔
 گلگلا - رنگ سلاب، ۵۶۔ صفا) گوشت سے بھرا ہوا موٹا پیلا، بھاری بھگر کم۔
 گلگم - رنگ سلاب، ۵۶۔ مذا) سخت آماس جو پیشانی یا سر پر کسی چوٹ کے باعث پیدا ہو جائے، گرم۔
 گلگنا - رنگ سلاب، ۵۶۔ مذا) پھلنا، ۲۰۔ پھلنا، ۳۰۔ پکنا، ۳۰۔ بوسیدہ ہونا۔
 ۵۶۔ صفا) گنا، ۲۰۔ ضائع ہونا، ۳۰۔ اسیڑنا۔
 ستیاناس ہونا، ۲۰۔ گزنا۔
 گلگنا بڑھنا - ۱۶۔ محاورہ) بوسیدہ ہونا۔ بڑھنے کے بیکار ہونا۔
 گلگنداز - رنگ سلاب، ۵۶۔ مذا) گولنداز۔
 گلگو - رنگ سلاب، ۵۶۔ مذا) ایک بیل جو خشک کر کے دوا کے طور پر استعمال کی جاتی ہے۔ بھانسا کے لیے مفید ہے۔
 گلگوٹ - رنگ سلاب، ۵۶۔ مذا) گھری، چھوٹی ڈاکھیل کا خطاب۔
 گلگو - رنگ سلاب، ۵۶۔ مذا) مٹی، گردن (۲)، آواز سے۔ سڑ۔

گلو بریدہ - ۱۶ صفت جس کا گلا کٹا ہوا ہو۔
 گلو بسترہ - ۱۶ صفت خاموش - ساکت - جس کا گلابند ہو۔
 گلوبندر - ۱۶ - اندر نگے میں باندھنے کا اونی یا ریشمی چمکا۔
 گلو خلاصی - ۱۶ - صفت (۱) - مٹا - چھٹکارا - نہایت۔
 گلو سوز - ۱۶ - صفت (۱) نہایت میٹھی اور لذیذ چیز - نہایت شیریں۔
 گلو کیر - ۱۶ - صفت (۱) گردن بڑھانے والا - الزام لگانے والا اور (۲) وہ کیلی چیز جو گے کو بڑھے (۳) لالچی - طامع۔

گلوب (Globe) - گ - گلوب (۱) انگ - ۱ - مذم گولا - گول - چیز۔
 گلوب (۲) کرہ زمینی۔
 گلو ری - ۱۶ - گ - لو - ری (۱) - مٹا (پان کا بیڑا بنا ہوا پان جو ایک خاص وقت پر لپٹا جاتا ہے۔
 گلو کوز - (Glucose) - گ - لو - کوز (۱) انگ - ۱ - مذم انگور سے نکلی ہوئی شکر۔

گلو لہ - ۱۶ - گ - لو - لہ (۱) - مذم گولی - گولہ - رُو۔
 گلو ندی - ۱۶ - گ - لو - دی (۱) - مذم ہوسے کا بھول یا اس کی گلی۔
 گلو - ۱۶ - گ - لو - (۱) - مذم چھینٹ - غول - ریوڑ - رموشیلوں ڈار۔
 گلو بان - ۱۶ - گ - لو - بان (۱) - مذم چرواہا - گڈڑیا - ریوڑ والا - بکریاں اور دیگر مویشی چرانے والا۔

گلو بانی - ۱۶ - گ - لو - بانی (۱) - صفت (۱) نگہبانی - محافظت - ریوڑ کی رکھوالی۔
 گلو - ۱۶ - گ - لو - (۱) - مذم شکرہ - شکایت - آلاہنا۔
 گلو زبان پر لانا - ۱۶ - صفت (۱) شکرہ کرنا - شکایت کرنا۔
 گلو شکرہ - ۱۶ - گ - لو - شکرہ (۱) - مذم آلاہنا - شکرہ - شکایت۔
 گلو کرنا - ۱۶ - صفت (۱) آلاہنا بنا - شکرہ کرنا۔
 گلو کڑاوی - ۱۶ - گ - لو - کڑاوی (۱) - صفت (۱) شکرہ - شکایت۔
 گلو مار کرنا - ۱۶ - گ - لو - مار کرنا (۱) - صفت (۱) میں ہار ڈالنا۔
 گلو - ۱۶ - گ - لو - (۱) - مذم گھری کا زرد (۲) پان رکھنے کا برتن۔
 گلو گھری - ۱۶ - گ - لو - گھری (۱) - صفت (۱) چوبے کی مانند ایک جانور جس پر کالی کالی دھاریاں ہوتی ہیں اور درختوں پر رہتا ہے۔

گلو گھری کا پیر چھکانا - ۱۶ - صفت (۱) ہر شخص کو اپنی ہی جگہ آرام دینا ہے۔

گلو گھریا - ۱۶ - گ - لو - گھریا (۱) - مذم وہ چنگ جس میں دھاریاں ہوتی ہیں۔
 گلو گھریا - ۱۶ - گ - لو - گھریا (۱) - مذم گھریا کا چھوٹا غودو گے کی ایک بیماری۔
 گلو - ۱۶ - گ - لو - (۱) - مٹا (کوچہ - محلے کے اندر کا راستہ - آبادی کے اندر تنگ سڑک۔

گلو گھکانا - ۱۶ - صفت (۱) آوارہ بھڑانا۔
 گلو گھکانا - ۱۶ - صفت (۱) محلہ - کوچہ۔
 گلو گلی - ۱۶ - صفت (۱) نعل - نعل میں بر کو چس میں کوچہ کوچہ۔
 گلیاں چھاننا - ۱۶ - صفت (۱) آوارہ بھڑانا کسی کی تلاش میں مارا مارا بھڑانا۔
 گلیوں کی خاک چھاننا - ۱۶ - صفت (۱) مارا مارا بھڑانا۔

گلی - ۱۶ - گ - لو - گلی (۱) - صفت (۱) مٹی کا بنا ہوا - کچا - نا پائیدار۔
 گلی - ۱۶ - گ - لو - گلی (۱) - مٹا (۱) مٹی کا چھاننا (۲) کھیلنے کا بھول (۳) وہ گول اور چھوٹی گلی جو نعل کے اندر دی جاتی ہے (۴) چاندی سونے کا ڈالا (۵) صیقل کرنے کا ایک اوزار (۶) دونوں طرف نکل دار چھوٹی مٹی گلیوں کا گروا جسے لڑکے لڈکے سے مار کر اچھالتے ہیں (۷) شہد کی ہمال۔

گلی بندھنا - ۱۶ - صفت (۱) پورا جوان ہونا - سن بلوغت کو پہنچنا اور (۲) شہد کا ہمال میں پک جانا۔
 گلی ڈنڈا - ۱۶ - مذم لڑکوں کے ایک کھیل کا نام جو گلی ڈنڈے سے کھیلا جاتا ہے۔ اس میں دو ٹکڑیاں ہوتی ہیں - ایک چھوٹی جسے گلی کہتے ہیں - دوسری گلی ڈنڈا کھیلنا - ۱۶ - صفت (۱) مٹی ڈنڈے سے کھیل کھیلنا اور (۲) وقت ضائع کرنا - آوارہ بھڑانا۔

گلیا - ۱۶ - گ - لو - گلیا (۱) - مذم تھکا ہلا تھیل (۲) کام چور۔
 گلیا - ۱۶ - گ - لو - گلیا (۱) - مذم رنگر جو ریشمی کپڑے اور بانٹ رنگت ہے۔
 گلیا - ۱۶ - گ - لو - گلیا (۱) - مذم کوچہ - گلی۔
 گلیان - ۱۶ - گ - لو - گلیان (۱) - صفت (۱) مر جان۔
 گلیانا - ۱۶ - گ - لو - گلیانا (۱) - صفت (۱) گلیاں دینا۔
 گلیا - ۱۶ - گ - لو - گلیا (۱) - صفت (۱) گلیاں دینا۔
 گلیا - ۱۶ - گ - لو - گلیا (۱) - صفت (۱) گلیاں دینا۔

گلیا - ۱۶ - گ - لو - گلیا (۱) - صفت (۱) گلیاں دینا۔
 گلیا - ۱۶ - گ - لو - گلیا (۱) - صفت (۱) گلیاں دینا۔
 گلیا - ۱۶ - گ - لو - گلیا (۱) - صفت (۱) گلیاں دینا۔
 گلیا - ۱۶ - گ - لو - گلیا (۱) - صفت (۱) گلیاں دینا۔

گ۔ م۔

گم (Gum) - ۱۶ - گ - م - گم (۱) - مذم مٹا - گوند۔
 گم - ۱۶ - گ - م - گم (۱) - صفت (۱) کھویا ہوا (۲) ضائع - رائیگاں (۳) غائب - پوشیدہ - چھپا ہوا (۴) نا پید (۵) مفرد (۶) خاص یافتہ - حیران - پریشان۔
 گم راہ - ۱۶ - گ - م - گم راہ (۱) - صفت (۱) راستہ بھولا ہوا - آوارہ بھٹکا ہوا (۲) بے دین بیڑن بدعتی (۳) برگشتہ - سرکش - متمرد (۴) مفرد - متکبر۔
 گم راہ ہونا - ۱۶ - گ - م - گم راہ ہونا (۱) - صفت (۱) راستہ بھول جانا - بھٹکانا (۲) بے دین ہونا - بھڑانا۔
 گم راہی - ۱۶ - گ - م - گم راہی (۱) - صفت (۱) بے راہی - کجروی (۲) تمرد - انحراف (۳) بے دینی - بدعت۔
 گم شدہ - ۱۶ - گ - م - گم شدہ (۱) - صفت (۱) کھویا ہوا - ضائع شدہ (۲) مفرد - بھٹکا ہوا۔

گنا - رگ - نا، ۱۰۱ - مذ ۱ - چند - مرتبہ - بار - جیسے چونکا - سو گنا -
 مرکبات میں مستعمل ہے -
 گنا - رگن - نا، ۱۰۱ - مذ ۱ - نیشکر - لونڈا -
 گنا نا - رگ - نا، ۱۰۱ - مذ ۱ - مص (شمار گونا - گونا نا -
 گناہ - رگ - نا، ۱۰۱ - مذ ۱ - مذہب ہی احکام کے خلاف عمل - عیسیاں
 پریم - خطا - قصور - پاپ -
 گناہ آمر زرخش - ۱۰۱ - صفت اگناہ بخشنے والا - ۱۱ - مذ ۱ -
 خدائے تعالیٰ -
 گناہ سختنا - ۱۱ - محاورہ خطا معاف کرنا - قصور معاف کرنا -
 گناہ بے لذت - ۱۱ - مذ ۱ - وہ گناہ جس کے کرنے میں کچھ فائدہ
 نہ ہو -
 گناہ دھونا - ۱۶ - محاورہ گناہ مٹانا یا ٹھوکرنا -
 گناہ رکھنا - ۱۶ - محاورہ کسی پرنا کردہ قصور ثابت کرنا جوٹھا
 الام لگانا -
 گناہ سمٹنا - ۱۶ - محاورہ گناہ کا دبا لیتے سر لینا -
 گناہ صغیرہ - ۱۰ - صفت معمول گناہ - اتنی گناہ - جرم خفیف -
 گناہ کا دبا ل پڑنا - ۱۱ - محاورہ گناہ کا خمیازہ بھگتنا - قصور کی
 سزا پانا -
 گناہ کبیرہ (عظیم) - ۱۰ - مذ ۱ - بھاری جرم - بڑا گناہ - وہ گناہ
 جس کی سزا قرآن شریف یا شرع میں مقرر ہو - ذرائع مذہبی
 کا ادا نہ کرنا -
 گناہ کرنا - ۱۶ - صفت مرکب کو بی ایسا کام کرنا جس کے کرنے کی قانون و
 ذمہ داری سماعت ہو - تصور کرنا -
 گناہ کار - گنہگار - ۱۰ - صفت عاصی - پاپی - بدکار - فاسق -
 ۱۰ - خطا کار - مجرم -
 گنہگار کرنا - گنہگار بنانا - ۱۱ - محاورہ گناہوں میں مبتلا کرنا -
 شرمندہ کرنا، ملزم بنانا -
 گناہ گامری - گنہگامری - ۱۰ - صفت قصور خطا جرم ۱۲، آمدنی جو مالی
 عدالت کی طرف سے وصول کی جائے - جرم نامہ تادان -
 گناہوں کی گنٹھڑھی - ۱۶ - صفت بہت سے گناہوں کا بوجھ -
 گنبد - ۱۰ - مذ ۱ - رگم - بد - برج - گول چھت - عمارت کا بالائی
 حصہ جو گول ہو -
 گنبد اذرق - گنبد فیروزہ رنگ - ۱۰ - مذ ۱ - آسمان -
 رلفظی معنی نیلا آسمان -
 گنبد بے در - ۱۰ - صفت آسمان -
 گنبد خضر - آسمان (۲) انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار
 مبارک کا گنبد لفظی معنی سبز گنبد -
 گنبدی آواز - ۱۰ - مذ ۱ - گنبد کی گونج (۲) جیسا کہ آواز آواز -
 گنبد گرداں - ۱۰ - مذ ۱ - آسمان رلفظی معنی گھومنے والا گنبد -
 گنبد مینا - گنبد مینائی - ۱۰ - مذ ۱ - آسمان رلفظی معنی

نیل گنبد -
 گنبدی - ۱۰ - مذ ۱ - ایک قسم کا ایک ستون والا نیلہ - گول خیمہ -
 گنبد کی شکل کا -
 گنبد - رگ - بنت، ۱۰ - صفت علم حساب -
 گنبد بدیا - ۱۰ - مذ ۱ - صفت علم ہندسہ - علم ریاضی -
 گنبد - اق - مذ ۱ - گناہ -
 گنبدی - ۱۰ - صفت حساب تعداد - اندازہ شمار ۲، حاضرہ -
 گنبدی کے - گھوڑے سے چند -
 گنبدی کے دن - ۱۱ - مذ ۱ - زندگی کے چند دن -
 گنبدی گونا - ۱۱ - محاورہ نام کی تعداد ظاہر کرنا - نمائشی خانہ پری
 کر کے دکھانا -
 گنبدی میں لانا - ۱۱ - محاورہ شمار میں لانا - حساب میں داخل کرنا، بات
 بوجھنا - خاطر میں لانا -
 گنڈا - رگن - نا، ۱۰ - مذ ۱ - تالاب -
 گنڈا - رگن - نا، ۱۰ - صفت پیاز کی گڑھ -
 گنڈھڑا - رگن - نا، ۱۰ - صفت سرسبز - پونجی - اصل -
 گنڈھڑا - رگن - نا، ۱۰ - صفت سیا جانا کا گنڈھا جانا -
 گنڈھڑا - رگن - نا، ۱۰ - صفت بوزوں کا درز نقرس - روح المغاسل -
 گنج - ۱۰ - مذ ۱ - خزانہ - دینے والا - ذخیرہ - گودام - مخزن - خزانہ (۲) مال
 کی بے انتہائی باندہ - انبار - ذخیرہ جمع - گنجما -
 گنج بخش - ۱۰ - صفت بہت بڑا فیاض - لکھ داتا، حضرت
 علیؑ جو بڑی کالقب -
 گنج بے رنج نہیں - ۱۱ - مثل امیر آدمی کو کسی پریشانیوں ہوتی
 گزرے ہیں -
 گنج حکیم - ۱۰ - صفت سمودہ فاتحہ -
 گنج ڈالنا دلگانا - ۱۱ - محاورہ آماج کی منڈی آباد کرنا، انبار لگانا -
 گنج روال - ۱۰ - صفت قانون کا خزانہ جو عدالت کے مطابق برابر زمین میں ہونے
 چاہئے، ۲، ذخیرانہ جو کبھی خالی نہ ہو -
 گنج شاکال - ۱۰ - مذ ۱ - بہت بڑا خزانہ یا چیز جو بادشاہوں
 کے لائق ہو -
 گنج شہیدان - ۱۰ - صفت وہ گنڈھڑا جو قبر جس میں شہیدوں یا مقتولوں کو
 اور بے پیکر دفن کر دیتے ہیں، ۲، شردول کا ڈھیر -
 گنج فریدوں - ۱۰ - مذ ۱ - ایرانی موسیقی کے ایک راگ کا نام -
 گنج قاروں - ۱۰ - صفت قاروں کا خزانہ - گنجوس دولت مند کا خزانہ ۲ بہت
 بڑا خزانہ جس میں سے کچھ خرچ نہ ہوا ہو -
 گنج - ۱۰ - صفت ایک مرض جس میں سر کے بال جھڑ جاتے ہیں -
 گنجا - ۱۰ - صفت وہ شخص جس کے سر کے بال نہ ہوں - جینے سر والا آدمی -
 گنجا کو خدا ماننا نہ دے - بوجھ سہ لکھائے - ۱۱ - مثل امیوں کو خدا کی
 قدر اختیار نہ دے کر وہ شریفوں کو تنگ کریں -
 گنجان - رگن - جان، ۱۰ - صفت گناہ پاس پاس متصل -

گنجانا۔ رگن۔ جا۔ نا۔ ۵۶۔ مص ۲، ہاتھ سے ملانا۔
 گنجانی۔ رگن۔ جاتی۔ ۵۱۔ ۱۔ مٹا، گننا، ہوتا۔
 گنجائش۔ رگن۔ جائش، ۱۶۔ مٹا، آسانی، چھکانہ۔ جگہ ۲، فائدہ
 بخت۔ کفایت۔ حوصلہ۔ مقدر۔
 گنجائش پذیر۔ ۶۔ نصف سامنے کے قابل جو سما سکے۔
 گنجائش رکھنا۔ ۱۶۔ محاورہ اتنی جگہ ہونا کہ اس میں سما سکے۔
 گنجائی۔ رگن۔ جا۔ ای، ۵۶۔ ۱۔ مٹا، ایک کپڑے کا نام جو برسات میں
 پیدا ہوتا ہے۔ کسٹلانی۔
 گنجرنا۔ رگن۔ بجز، نا، ۵۶۔ مص ۲، زور سے چیخنا۔ دہڑانا۔ گرجنا۔
 گنجفہ۔ رگن۔ ف۔ ۱۶۔ ۱۔ مٹا، ایک کھیل کا نام جس میں ۹۴ گول
 پتے ہوتے ہیں اور تین گولڈ میس۔
 گنجفہ ابر، ہونا۔ ۱۶۔ محاورہ گنجفہ کے ناقص پتے سے ملنا۔
 گنجفہ باز۔ ۶۔ نصف گنجفہ کیلئے والا ۲، مکار۔ چال باز۔ فریبی۔
 گنجفہ کا درق۔ ۱۶۔ مٹا، گنجفہ کا پتا۔
 گنجیلک۔ رگن۔ کب۔ ۵۶۔ ۱۔ مٹا، ٹھکن۔ سلوٹ ۲، کانٹھ۔ گرہ
 عقدہ ۲، المین جیکوٹا۔ بکھیرا۔
 گنجلک کی باتیں۔ ۱۶۔ مٹا، پیچیدہ باتیں۔ گول مول باتیں۔
 گنجر۔ رگن۔ بجز، ۶۔ ف۔ ۱۔ مٹا، دولت مند۔ امیر آدمی۔ صبح
 سنج در ہے۔
 گنچھیا۔ رگن۔ چھیا، ۵۶۔ ۱۔ مٹا، ایک قسم کا تل ہوا سوسہ۔
 گنچی۔ ۵۶۔ ۱۔ مٹا، وہ عودت جس کے سر پر بال نہ ہوں۔
 گنچی پنہاری اور گوکھرو کا اینڈروا۔ ۱۶۔ مثل ۲، اپنی حیثیت
 سے بڑھ کر کام کرنا۔
 گنچی کبوتری حملوں میں ڈیرا۔ ۱۶۔ مثل ۲، بد صورت اور کینے کو کسی اعلیٰ درجہ
 کے پروردگار کہتے ہیں۔
 گنجیا۔ رگن۔ یا، ۵۶۔ ۱۔ مٹا، اگاڑی بان یا گھسیارے کے اوزاروں
 کا تھیلا۔
 گنچیا۔ رگن۔ یا، ۵۶۔ ۱۔ مٹا، کان کا ایک زیور۔
 گنچیرتی۔ رگن۔ ہے۔ رتی، ۵۶۔ ۱۔ مٹا، گانچا پینے والا۔
 گنجیفہ۔ رگن۔ جی۔ ۱۶۔ ف۔ ۱۰۔ مٹا، گنجفہ۔
 گنجینہ۔ رگن۔ جی۔ نا، ۱۶۔ ف۔ ۱۔ مٹا، خزائنہ۔ دفتینہ ۲، ذخیرہ۔
 مال گودام۔
 گنجینہ دار۔ ۱۶۔ نصف خزینہ۔
 گند۔ ۶۔ ۱۔ مٹا، بدبو۔ عفتوت۔ تعفن ۲، نجاست۔
 غلاظت پلیدی ۳، گند کرکٹ ۴، شراب اور کئی چیز ۵،
 چھگڑا۔ بھگڑا۔
 گند پاک ہونا۔ گند گٹنا۔ ۱۶۔ محاورہ چھگڑا پاک ہونا۔ رنج و شفت
 سے نہات پانا۔
 گند پڑنا۔ ۱۶۔ محاورہ کوڑا کرکٹ پھیلنا ۲، چھگڑا ہونا۔
 گند۔ رگن۔ دا، ۶۔ ۱۔ نصف، ناپاک۔ غلیظ۔ نجس۔ میلا۔ بدبو دار۔

گند انا۔ ۵۶۔ ۱۔ مٹا، جو خراب ہو گیا ہو ۲، بد چلن بیٹھا۔
 گند پانی۔ میلا۔ غلیظ پانی ۲، شراب ۳، پتھاب ۴، آئینہ۔ منی
 گند مویہ۔ ۱۶۔ ۱۔ مٹا، وہ زرد چھوٹے چھوٹے پربو پندوں کے
 بچوں کے نکتے ہیں ۲، وہ بال جو بچوں کے جسم پر سب سے پہلے
 نکلتے ہیں۔
 گندانا۔ ۱۶۔ مٹا، گوندھنا۔
 گندر۔ رگن۔ در، ۵۶۔ ۱۔ مٹا، ایک قسم کا کپڑا جو اناج میں لگ جاتا ہے۔
 گندک۔ رگن۔ دک، ۵۶۔ ۱۔ مٹا، گندھک۔
 گندگی۔ رگن۔ دگی، ۶۔ ۱۔ مٹا، بدبو۔ عفتوت۔ بساند ۳، غلاظت
 نجاست۔ ناپاکی۔
 گندگی پھیلانا۔ ۱۶۔ محاورہ بدبو پھیلانا۔ شراب پھیلانا ۲، کسی جگہ کو میلا
 یا گندنا ۳، نامہذب گفتگو کرنا۔
 گندم۔ رگن۔ دم، ۶۔ ۱۔ مٹا، گیہوں، کنگ۔
 گندم زرگندم برود جو جو۔ ۱۶۔ مثل ۲، جھسا کر دے دیا جو گے لفظی
 معنی گندم سے گندم آتا ہے اور جو ہونے سے جو آتا ہے۔
 گندم اگر ہم نرسد جو (نجس، غنیمت است۔ ۱۶۔ مثل ۲، اگر
 زیادہ فائدہ میسر نہ ہو تو تھوڑا ہی سہی لفظی معنی۔ زرگندم مثل کے تو
 جو یا نجس ہی سہی۔
 گندم کول۔ ۱۶۔ مٹا، گندمی رنگ کا۔ ساٹولا۔
 گندم نما۔ ۶۔ ۱۔ نصف، دھوکے باز۔ مکار۔ چالاک۔ دغا باز۔
 گندم نما جو فروش۔ ۶۔ ۱۔ نصف، گندم دکھا کر جو بیچنے والا۔ جس کے ظاہر
 باطن میں فرق ہو۔ مکار۔ دغا باز۔ دھوکا دینے والا۔
 گندم نمائی۔ ۶۔ ۱۔ مٹا، فریب۔ دغا بازی۔
 گندمی۔ رگن۔ می، ۱۶۔ ۱۔ نصف، گندم کے رنگ کا ساٹولا۔
 گندنا۔ گندنا، ۶۔ ۱۔ مٹا، ایک ترکاری کا نام جو لہسن سے مشابہ ہوتی ہے۔
 گند پڑا۔ رگن۔ ڈو، ۵۶۔ ۱۔ مٹا، کھانڈی کی گیاروی جو ہندو شادیوں
 میں تقسیم کرتے ہیں۔
 گندہ۔ رگن۔ دہ، ۶۔ ۱۔ نصف، ناپاک۔ غلیظ۔ نجس ۲، بدبو دار ۳، بگڑا ہوا
 شراب ۴، بذر زبان ۵، برادے، شراب ۸، بے ہودہ۔
 گندہ بروزہ (بیرورہ)۔ ایک بدبو دار مادہ جو چھڑکے درخت سے نکلتا
 ہے۔ ایک قسم کی گند۔
 گندہ بغل۔ ۶۔ ۱۔ نصف، وہ شخص جس کی بغلوں سے بو آئے۔
 گندہ بہار۔ ۶۔ ۱۔ مٹا، وہ بارش جو موسم سرما میں ہو۔
 گندہ دماغ۔ ۶۔ ۱۔ مٹا، مغزور۔ متکبر۔
 گندہ دہن۔ ۶۔ ۱۔ مٹا، وہ شخص جس کے منڈے بو آئے۔
 گندہ گرننا۔ ۱۶۔ محاورہ ناپاک کرنا ۲، خراب کرنا ۳، عصمت بگاڑنا۔
 گندہ۔ رگن۔ دہ، ۶۔ ۱۔ نصف، موٹا۔
 گندھ۔ ۱۶۔ ۱۔ مٹا، بدبو دار ۲، سرخ صندل۔ گسا ہوا صندل۔
 گندھار۔ رگن۔ دھار، ۵۶۔ ۱۔ مٹا، ایک ہندوستانی راگ کا نام۔
 گندھاوٹ۔ رگن۔ دھا، وٹ، ۵۶۔ ۱۔ مٹا، ہالوں کے گندھنے کا انداز

۲۱ پھولوں کا ہار بنانے کا طریقہ۔

گندھرب۔ رگن۔ دھرب ۱۶ س۔ ۱۰۔ مذ ۱۔ راجہ اندر کے دربار کا گویا، اچھا گائے والا۔ قوال۔ بنتی (۳)، ایک پرندے کا نام، وہ خوبصورت حسینہ (۵) مزیدار لاک۔

گندھرب بیباہ۔ س۔ ۱۰۔ مذ ۱۔ عورت اور مرد کا اپنی مرضی سے بغیر کسی رسم کے بیاہ کرنا۔
گندھک۔ رگن۔ دھک ۱۰۶۔ مذ ۱۔ صفت از رو رنگ کا ایک مادہ جو زمین سے نکلتا ہے۔

گندھنا۔ رگن۔ دھنا ۱۰۶۔ مذ ۱۔ صفت آگے میں پانی ڈال کر ملانا، سر کے بالوں کا گتھنا، ہار کا گتھنا۔
گندھوانا۔ رگن۔ دھنا ۱۰۶۔ مذ ۱۔ صفت آگے میں پانی ڈال کر ملانا، بال یا ہار کا گتھنا۔

گندھی۔ رگن۔ دھی ۱۰۶۔ مذ ۱۔ عطر پھیل بیچنے والا۔ عطار۔
گندھی۔ رگن۔ دھی ۱۱۱۔ صفت گند کی تانیت، ناپاک عورت خلیقا عورت، قریش غیر مذہب گتھو (۳)، غربت، ناکارہ بھی چیز۔

گندی بوٹی کا گندھا شوربا۔ ۱۶۔ مثل ۱۔ بدوں کی بڑی اولاد۔ بڑے کام کا برا نتیجہ۔
گندی گندی بائیں کرنا۔ ۱۶۔ محاورہ ۲ گالیاں بکنا۔ بے شرمی کی باتیں زبان پر لانا۔

گندیلا۔ رگن۔ دی ۱۰۶۔ صفت آگوند والا۔ وہ درخت جس میں سے گوند نکلے۔
گندی۔ رگن۔ دی ۱۰۶۔ صفت آگوند والا۔ وہ درخت جس میں سے گندا۔ رگن۔ دی ۱۰۶۔ صفت آگوند والا۔ وہ درخت جس میں سے گندیلا۔ رگن۔ دی ۱۰۶۔ صفت آگوند والا۔ وہ درخت جس میں سے گوند نکلے۔

گندیلا۔ رگن۔ دی ۱۰۶۔ صفت آگوند والا۔ وہ درخت جس میں سے گوند نکلے۔
گندیلا۔ رگن۔ دی ۱۰۶۔ صفت آگوند والا۔ وہ درخت جس میں سے گوند نکلے۔

گندیلا۔ رگن۔ دی ۱۰۶۔ صفت آگوند والا۔ وہ درخت جس میں سے گوند نکلے۔
گندیلا۔ رگن۔ دی ۱۰۶۔ صفت آگوند والا۔ وہ درخت جس میں سے گوند نکلے۔

گندیلا۔ رگن۔ دی ۱۰۶۔ صفت آگوند والا۔ وہ درخت جس میں سے گوند نکلے۔
گندیلا۔ رگن۔ دی ۱۰۶۔ صفت آگوند والا۔ وہ درخت جس میں سے گوند نکلے۔

گندیلا۔ رگن۔ دی ۱۰۶۔ صفت آگوند والا۔ وہ درخت جس میں سے گوند نکلے۔
گندیلا۔ رگن۔ دی ۱۰۶۔ صفت آگوند والا۔ وہ درخت جس میں سے گوند نکلے۔

لگا ہوا لوہے کا تیز ہتھیار۔

گندھاسی۔ رگن۔ ڈاسی ۵۱۔ ۱۔ صفت آگندھاسا کی تانیت۔ چھڑکا گندھاسا۔
گندھلا۔ رگن۔ دھلا ۱۰۶۔ مذ ۱۔ دائرہ۔ حلقہ۔ کنگل۔

گندھلی۔ رگن۔ دھلی ۱۰۶۔ ۱۔ صفت آگندھلا کی تانیت۔
گندھلی مارنا۔ ۱۱۔ محاورہ ۲) سانپ کا حلقہ کر کے بیٹھنا۔
گندھم۔ رگن۔ دھم ۱۶۔ صفت آگندھم۔ مصیبت۔
گندھالا۔ رگن۔ دھالا ۱۰۶۔ ۱۔ صفت آگندھالا۔

گندھولا (Gondola)۔ رگن۔ ڈولا ۱۱۱۔ صفت آگندھولا۔ شہر ویش کی نہروں میں چلنے والی کشتیاں۔
گندھی۔ رگن۔ ڈھی ۱۰۶۔ صفت آگندھولا۔ شہر ویش کی نہروں کے گرد بناتے ہیں۔

گندھیری۔ رگن۔ ڈھی ۱۰۶۔ ۱۔ صفت آگندھیری۔ چھوٹی سی پوری۔
گندھیری دار۔ ۵۱۔ صفت آگندھیری۔ جتنے کا نیچا (۲) رنگ برنگ کی چیز۔

گنسر (Gunner)۔ رگن۔ ڈنسر ۱۱۱۔ صفت آگنسر۔ توتلی۔ توپ چلنے کا انسداد۔ شکاری۔ بندوق سے شکار کھیلنے والا۔
گنگ۔ ۱۰۶۔ صفت آگنگ۔ گنگا جو ہندوستان میں ہے۔

گنگ۔ ۱۰۶۔ صفت آگنگ۔ گنگا۔ زبان سے نزل سکنے والا۔
گنگ محل۔ اگر بادشاہ کا وہ محل جو اس نے انسان کی طبعی زبان دریافت کرنے کے لیے جوایا تھا۔

گنگا۔ رگن۔ گنگا ۱۰۶۔ صفت آگنگا۔ ہندوستان کا مشہور دریا جس میں نہانے سے ہندوؤں کے اعتقاد کے مطابق پاپ دور ہوتے ہیں۔ اور اس میں مردوں کی راکھ یا ہڈیاں ڈالنا باعث نجات سمجھا جاتا ہے۔

گنگا اٹھانا۔ دریا کے گنگا کا پانی ہاتھ میں لے کر قسم اٹھانا۔
گنگا اٹھان۔ گنگا اٹھان۔ ۱۰۶۔ صفت آگنگا اٹھان۔

گنگا بہانا۔ ۱۱۔ محاورہ ۲) فیض جاری کرنا۔ کسی کام سے فراغت کرنا۔
گنگا بہنا۔ دریا کے گنگا کا پانی ہاتھ میں لے کر قسم اٹھانا۔
گنگا بار کرنا۔ ۱۱۔ محاورہ ۲) جلا وطن کرنا۔

گنگا جلی۔ ۱۰۶۔ صفت آگنگا جلی۔ دریا کے گنگا کا پانی ہاتھ میں لے کر قسم اٹھانا۔
گنگا جلی اٹھانا۔ ۱۱۔ محاورہ ۲) جلا وطن کرنا۔
گنگا جھننا۔ ۵۱۔ صفت آگنگا جھننا۔ دو مقدس دریاؤں کے نام، ۱۲) ملاحظہ۔ دھنگا۔

گنڈا لاکھ ہونا۔ ۱۶۔ محاورہ انگلہ پر جا کر مرنے۔
 گنڈا مدار کا ساتھ۔ ۵۶۔ مذمہ ہندو مسلم اتحاد۔
 گنڈا نہانا۔ ۱۶۔ محاورہ دریائے گنگا میں اشنان کرنا۔ ۲۲۔ کسی مشکل کام کو انجام
 پر پہنچانا۔ ۳۰۔ پاک ہونا۔ گناہ دھلانا۔ ۴۲۔ قرضہ سے سبکدوش ہونا۔ ۵۰،
 بیگنٹے فرض سے فارغ ہونا۔ ۶۲۔ ثواب کمانا۔
 گنڈا یا کرا۔ ۱۔ ۵۶۔ مٹا، نہانے کے لیے دریائے گنگا پر جانا۔ قریب
 المگ آدی کو گنگا کنارے لے جانا۔
 گنڈا کال۔ گن۔ گال۔ ۵۶۔ مذمہ پانی رکھنے کا بڑا برتن۔ گاگر۔
 گنڈنا۔ گن۔ گن۔ نا۔ ۵۶۔ نصف آنک میں بولنے والا۔ ۲۰۔ نیم گرم پانی۔
 گنڈنا۔ گن۔ گن۔ نا۔ ۵۶۔ مص۔ آنک میں بولنا۔ ۲۲۔ دھیمی آواز سے
 گنڈنا۔ منہ ہی منہ میں گانا۔
 گنڈنا ہنٹ۔ گن۔ گن۔ نا۔ ہنٹ۔ ۵۶۔ مٹا۔ گنگانے کا فعل۔
 گن گن کر کے۔ ۵۶۔ تابع فعل۔ ایک ایک کر کے۔ ۲۲۔ سنبھال سنبھال کر۔ ۳۲،
 چھانٹ چھانٹ کر۔ ۴۰۔ پھر مشکل تمام۔ جوں جوں کر کے۔
 گن گن کے دن اکاشا، گزارنا۔ ۱۶۔ محاورہ ۱۔ معصیت سے دن پھینے
 کرنا۔ ۲۲۔ جوں جوں کر کے دن تمام کرنا۔
 گن گن کے قدم رکھنا۔ ۱۶۔ محاورہ ۱۔ ہستہ آہستہ چلنا۔ ۲۲۔ ڈر ڈرا اور سنبھل کر
 چلنا۔ ۳۲۔ نہایت انزاکت سے قدم اٹھانا۔
 گنگو تری۔ گن۔ گوت۔ ری۔ ۱۰۔ مٹا۔ دسیائے گنگا کے منبع کا نام جو
 گوہ بحالیہ میں واقع ہے۔
 گنگنا۔ گن۔ نا۔ ۵۶۔ مص۔ گنگنی کرنا۔ شمار کرنا۔ ۲۲۔ جانچنا۔ اندازہ کرنا۔
 گنگنا۔ گن۔ نا۔ ۵۶۔ مص۔ عشق کرنا۔
 گنوار۔ گن۔ وار۔ ۵۶۔ اندا گول کا پہنے والا آدمی۔ دیہاتی، کسان۔
 زمیندار۔ ۳۲۔ نادان، ابل، ابل بڑھ۔ جاہل۔ غیر مجرب۔
 گنوار سن۔ ۱۶۔ نصف اے سلیٹی۔ بدہنہ یعنی۔ بدخونی۔
 گنوار کا لکھ۔ ۱۶۔ مذمہ آہستان کی بڑی موٹی لالھی۔ ۲۲۔ ناشائستہ بے تمیز۔ ۳۲۔
 بد اخلاق۔ سخی۔
 گنوار کا پالسا لوڑ سے پالسا۔ ۱۶۔ مثل، احمق کا مذاق نقصان
 دیتا ہے۔
 گنوار گنڈا نہ دے بھیل دے۔ ۱۶۔ مثل، بے وقوف آدمی حسرت
 کر کے نقصان اٹھاتا ہے۔
 گنوار۔ گن۔ وار۔ ۵۶۔ مص۔ گنواروں کا سا۔ بد نما۔ بھدا
 بد زب۔
 گنوار سی۔ گن۔ وا۔ ری۔ ۵۶۔ صفت گنوار کی طرح۔ ۲۲۔ صفت
 بد نما۔ بھدی۔
 گنوار سی بائیں۔ ۱۶۔ مٹا۔ آہستانوں کی سی بائیں۔
 گنوار۔ گن۔ وار۔ نا۔ ۵۶۔ مص۔ ضائع کرنا۔ برباد کرنا۔ کھونا۔
 گنوار۔ گن۔ وا۔ نا۔ ۵۶۔ مص۔ شمار کرنا۔
 گنوار یا۔ (Gonorrhoea) گن۔ وار۔ ری۔ یا، انگ۔ ۱۰۔ مذمہ جنسی

مرض جس میں پیشاب کے مقام سے سب نکلتی ہے۔ سوزاک۔
 گنڈ۔ رگ۔ ۱۰۔ مذمہ گناہ کا تخفیف۔ جرم۔ خطا۔ قصور۔ جمع۔ ۱۔
 گنڈا۔
 گنڈا گارہ ہوجانا۔ ۱۶۔ محاورہ اپانی بن جانا۔ ۲۲۔ تصور وار ہونا۔
 ملزم ٹھہرنا۔
 گنی (Gunea) رگ۔ نی، انگ۔ ۱۔ مذمہ سونے کا ایک سکہ جو
 انیس شتک کا ہوتا ہے۔
 گنی بونی لیمیا شور بار بوٹیاں گنی ہوئیں اور مایا ہوا شور با۔ ۱۰۔ مثل
 صرف گزارنے کے قابل۔ بقدر ضرورت۔ بہت کچھ نہ مان کر۔ نہایت کفایت
 اور شعاری۔ گنیوسی۔
 گنی۔ رگ۔ نی۔ ۵۱۔ صفت ہنرمند۔ کامل۔ خدار سیدہ (۳)، لائق
 فائق (۴)، سانپ کا منتر جاننے والا (۵)، سیانا۔ جاوڈ لڑنا
 کرنے والا۔
 گنیا۔ رگ۔ یا۔ ۵۱۔ مذمہ مضروب فیہ جس میں ضرب دیں (۲)، بڑھی کا تیرا
 ٹیڑھی جو کوسیدھا کرنے والا کر۔
 گنیش۔ رگ۔ نیش۔ ۱۶۔ مذمہ شوجی اور پاربتی کا بیٹا۔ جسے ہندو
 دانائی اور مشکل کشائی کا دیوتا مانتے ہیں۔
 گنیش چوتھ۔ ۵۶۔ مٹا۔ ہندوؤں کا ایک بہوار۔

گ۔ و

گوہ۔ ۵۶۔ ۱۔ مذمہ گوہ غلاظت۔ فضلہ۔ میلا۔ برادر۔ نجاست۔
 گو اچھالنا۔ ۱۶۔ محاورہ، بڑی بات کو شہرت دینا۔ بدنام کرنا۔
 گو اٹھاتے پھیرنا۔ ۱۶۔ محاورہ اسودالی بنے پھیرنا۔ مجوزانہ حرکتیں کرنے
 پھیرنا۔ دیوانہ وار پھیرنا۔ پاگل ہوجانا۔
 گو سے کھانا کرنا۔ از حد ذلیل و رسوا کرنا۔ بے حد نفرت گئے قابل سمجھنا۔
 گراہت کی نظر سے دیکھنا۔
 گو کا لوکر اسم سر پر اٹھانا۔ ۱۶۔ محاورہ اُڑائی سر پر لینا۔
 گو کا لپٹا۔ ۱۱۔ مذمہ کہ پیرا جو فضلہ میں پیدا ہوتا ہے۔
 گو کا لپٹا گوہی میں خوش رہتا ہے۔ ۱۶۔ مثل جو شخص جسی صحبت میں پلا
 ہوتا ہے ایسی ہی صحبت اس کو بھی معلوم ہوتی ہے۔
 گو کرنا۔ ۱۶۔ محاورہ میل کرنا۔ بائیں نہ کرنا۔
 گو کھانا۔ ۱۶۔ محاورہ ۱۔ جھک مارنا جھوٹ بولنا۔ ۲۔ ہودہ بکنا۔
 گو میں ڈھیلا ڈالیں نہ چھینٹیں پڑیں۔ گو میں ڈھیلا پھینکے
 گا۔ سو چھینٹے کھانے گا۔ شریر یا کینے آدمی سے اچھے نہ ذلت
 اٹھائے گا۔
 گو میں کوڑھی کرے تو دانتوں سے اٹھائے۔ ۱۶۔ مثل ایسا کجوس جو نہایت
 گور کی بھی پرواہ نہیں کرتا۔
 گو نہ کھا۔ ۱۶۔ محاورہ ۱۔ جھک نہ مار۔ کجوس نہ کر۔ بک بک نہ کر (۲)، جھوٹ

گوہ بحالیہ میں واقع ہے۔
 گنگنا۔ گن۔ نا۔ ۵۶۔ مص۔ گنگنی کرنا۔ شمار کرنا۔ ۲۲۔ جانچنا۔ اندازہ کرنا۔
 گنگنا۔ گن۔ نا۔ ۵۶۔ مص۔ عشق کرنا۔
 گنوار۔ گن۔ وار۔ ۵۶۔ اندا گول کا پہنے والا آدمی۔ دیہاتی، کسان۔
 زمیندار۔ ۳۲۔ نادان، ابل، ابل بڑھ۔ جاہل۔ غیر مجرب۔
 گنوار سن۔ ۱۶۔ نصف اے سلیٹی۔ بدہنہ یعنی۔ بدخونی۔
 گنوار کا لکھ۔ ۱۶۔ مذمہ آہستان کی بڑی موٹی لالھی۔ ۲۲۔ ناشائستہ بے تمیز۔ ۳۲۔
 بد اخلاق۔ سخی۔
 گنوار کا پالسا لوڑ سے پالسا۔ ۱۶۔ مثل، احمق کا مذاق نقصان
 دیتا ہے۔
 گنوار گنڈا نہ دے بھیل دے۔ ۱۶۔ مثل، بے وقوف آدمی حسرت
 کر کے نقصان اٹھاتا ہے۔
 گنوار۔ گن۔ وار۔ ۵۶۔ مص۔ گنواروں کا سا۔ بد نما۔ بھدا
 بد زب۔
 گنوار سی۔ گن۔ وا۔ ری۔ ۵۶۔ صفت گنوار کی طرح۔ ۲۲۔ صفت
 بد نما۔ بھدی۔
 گنوار سی بائیں۔ ۱۶۔ مٹا۔ آہستانوں کی سی بائیں۔
 گنوار۔ گن۔ وار۔ نا۔ ۵۶۔ مص۔ ضائع کرنا۔ برباد کرنا۔ کھونا۔
 گنوار۔ گن۔ وا۔ نا۔ ۵۶۔ مص۔ شمار کرنا۔
 گنوار یا۔ (Gonorrhoea) گن۔ وار۔ ری۔ یا، انگ۔ ۱۰۔ مذمہ جنسی

گواہی - رگ - دا - ہی - ۱۱ - ۱۱ - مٹ (شہادت) گواہ کا بیان جمع - گواہیاں -
گواہی اٹلی ہو جانا - ۱۱ - محاورہ (شہادت کا خلاف ہو جانا -
گواہی دینا - ۱۷ - محاورہ (شہادت دینا - اٹھارہ دینا -
گواہی کرنا - گواہی لکھنا - ۱۷ - محاورہ (کسی دستاویز پر شہادت کے
طور پر اپنے دستخط کرنا -

گواہی - رگ - واہی - ۵۶ - ۱ - مٹ (کانگے کی مہرت -
گوگر - رگ - ۵۶ - ۱ - مذ (جو پاپوں کا فضلہ - سرگس - میلا -
گوگر کنڈیش - ۵۶ - ۱ - مذ (گوگر کا بنا ہوا کنڈیش - نہایت بد صورت - بد نما -
بے ذل چہیز - ۳ - موٹا جھینسا رام - نہایت - کابل - ۵۶ - ۱ - حق - کند ذہن -
گوگر ذہن - رگ - ۵۶ - ۱ - مذ (ہندو دیو مال میں مویشیوں کا محافظ
دیوتا - ۲ - ایک سوار جو دیوالی کے دوسرے دن منایا جاتا ہے -
گوگر نکال دینا - ۱۶ - محاورہ (بہت مارنا -
گوگر بنی - رگ - ۵۶ - ۱ - مٹ (اپنی مٹی اور گوگر کا میل - جس سے
پانی کرتے ہیں -

گوگر پلا - رگ - ۵۶ - ۱ - مذ (گوگر کا پلا -
گوگر بند - رگ - ۵۶ - ۱ - مذ (کرشن جی کا ایک لقب -
گوگر بھی - رگ - ۵۶ - ۱ - مٹ (گرم کلا - ایک ترکاری -
گوگر - ۱ - مذ (گوگر - گوالا - گائے چرانے والا -
گوگر - ۵۶ - ۱ - مٹ (سونے چاندی کے تاروں کی گندھی ہونی رنجہ ۲۰ - سونے
کا ہار ۳ - سونے چاندی کی پونجی - ہم گندھے ہوتے لیستہ کا کر بند -
گوگر پال - رگ - ۱ - مذ (گوگر پالنے والا - کرشن جی کا لقب -
گوگر پال - رگ - ۱ - مذ (گندھ - لڑائی کے ایک ہتھیار کا نام -
گوگر بن - گوگر بن - گوگر بن - ۵۶ - ۱ - مذ (گوگر - فلاخن - رسی کا بنا ہوا آکر
جس میں پتھر یا مٹی کی گولی رکھ کر مارتے ہیں -

گوگر - رگ - ۱ - مذ (گوالا - گوگر - گائے چرانے والی (۲) دودھ پیچنے
والی (۳) کرشن جی کے ساتھ - بچپن میں کھیلنے والی گولوں کی لڑکیوں میں
سے ہر ایک کا لقب -

گوگر - رگ - ۵۶ - ۱ - مذ (گوگر - فلاخن -
گوگر پلا - رگ - ۱ - مذ (گوگر پلا - ۱ - محاورہ (فلاخن سے پرندوں کا اڑانا -
گوگر - رگ - ۵۶ - ۱ - مذ (نامان - گھرا نا - حسب نسب (۲) قوم -
فرقہ - قبیلہ -

گوگر - رگ - ۱ - مذ (بدھ مذہب کا بانی ساکی منی جو ریاست
کیل دستو میں پیدا ہوا تھا (۲) ایک رشی کا نام جس نے شاستر
بنایا تھا -

گوگر - رگ - ۵۶ - ۱ - مذ (گوگر - گوگر - سینا -
گوگر - رگ - ۵۶ - ۱ - مذ (گوگر - گوگر - سینا -
گوگر - رگ - ۵۶ - ۱ - مذ (گوگر - گوگر - سینا -

گوگر - رگ - ۵۶ - ۱ - مذ (گوگر - گوگر - سینا -
گوگر - رگ - ۵۶ - ۱ - مذ (گوگر - گوگر - سینا -
گوگر - رگ - ۵۶ - ۱ - مذ (گوگر - گوگر - سینا -

گواہی - رگ - ۵۶ - ۱ - مذ (گوگر - گوگر - سینا -
گواہی - رگ - ۵۶ - ۱ - مذ (گوگر - گوگر - سینا -
گواہی - رگ - ۵۶ - ۱ - مذ (گوگر - گوگر - سینا -

گواہی - رگ - ۵۶ - ۱ - مذ (گوگر - گوگر - سینا -
گواہی - رگ - ۵۶ - ۱ - مذ (گوگر - گوگر - سینا -
گواہی - رگ - ۵۶ - ۱ - مذ (گوگر - گوگر - سینا -

گواہی - رگ - ۵۶ - ۱ - مذ (گوگر - گوگر - سینا -
گواہی - رگ - ۵۶ - ۱ - مذ (گوگر - گوگر - سینا -
گواہی - رگ - ۵۶ - ۱ - مذ (گوگر - گوگر - سینا -

گواہی - رگ - ۵۶ - ۱ - مذ (گوگر - گوگر - سینا -
گواہی - رگ - ۵۶ - ۱ - مذ (گوگر - گوگر - سینا -
گواہی - رگ - ۵۶ - ۱ - مذ (گوگر - گوگر - سینا -

گواہی - رگ - ۵۶ - ۱ - مذ (گوگر - گوگر - سینا -
گواہی - رگ - ۵۶ - ۱ - مذ (گوگر - گوگر - سینا -
گواہی - رگ - ۵۶ - ۱ - مذ (گوگر - گوگر - سینا -

گواہی - رگ - ۵۶ - ۱ - مذ (گوگر - گوگر - سینا -
گواہی - رگ - ۵۶ - ۱ - مذ (گوگر - گوگر - سینا -
گواہی - رگ - ۵۶ - ۱ - مذ (گوگر - گوگر - سینا -

گواہی - رگ - ۵۶ - ۱ - مذ (گوگر - گوگر - سینا -
گواہی - رگ - ۵۶ - ۱ - مذ (گوگر - گوگر - سینا -
گواہی - رگ - ۵۶ - ۱ - مذ (گوگر - گوگر - سینا -

گواہی - رگ - ۵۶ - ۱ - مذ (گوگر - گوگر - سینا -
گواہی - رگ - ۵۶ - ۱ - مذ (گوگر - گوگر - سینا -
گواہی - رگ - ۵۶ - ۱ - مذ (گوگر - گوگر - سینا -

گواہی - رگ - ۵۶ - ۱ - مذ (گوگر - گوگر - سینا -
گواہی - رگ - ۵۶ - ۱ - مذ (گوگر - گوگر - سینا -
گواہی - رگ - ۵۶ - ۱ - مذ (گوگر - گوگر - سینا -

گواہی - رگ - ۵۶ - ۱ - مذ (گوگر - گوگر - سینا -
گواہی - رگ - ۵۶ - ۱ - مذ (گوگر - گوگر - سینا -
گواہی - رگ - ۵۶ - ۱ - مذ (گوگر - گوگر - سینا -

گواہی - رگ - ۵۶ - ۱ - مذ (گوگر - گوگر - سینا -
گواہی - رگ - ۵۶ - ۱ - مذ (گوگر - گوگر - سینا -
گواہی - رگ - ۵۶ - ۱ - مذ (گوگر - گوگر - سینا -

گوٹا - رگوٹا، ۱۱-۱۰-۱۔ نام کناری چاندی یا سونے کے تاروں کا ہفتہ۔
 جلی لیس۔
 گوٹا کناری - ۱۱-۱۱-۱۱۔ مٹا، چاندی سونے کی تاروں کی لیس جو ریشم کے
 بانے کی بنی جاتی ہے۔
 گوٹوچ - ۱۶-۱۱-۱۱۔ مٹا، آق، اسرار پوشیدہ بات۔
 گوچر - گوچر، ۱۶-۱۱-۱۱۔ مذم، برصغیر کی ایک قدیم زمیندار قوم۔
 گوچرا - گوچر، ۱۶-۱۱-۱۱۔ مذم، گہیوں اور جو ملا ہوا ناچ۔
 گوچری - گوچری، ۱۶-۱۱-۱۱۔ مٹا، گوچری کی تائیت۔
 گوچر قوم کی عورت۔
 گوچھا - گوچھا، ۱۶-۱۱-۱۱۔ مذم، عجیب کیسہ۔ پاکٹ (۲)، ایک قسم کا چکوان سبوتا
 ۱۲، ایک قسم کی خار دار گلاس (م) غصیہ، پیٹیا ہوا۔
 گوچھے کا گھاڑا رانی جلنے یا راؤ - ۱۶-۱۱-۱۱۔ مٹا، گھر کی تکلیفیں کچھ گھر
 والے ہی جانتے ہیں۔
 گوچھا - گوچھا، ۱۶-۱۱-۱۱۔ مٹا، گورخ - نا، ۱۶-۱۱-۱۱۔ مٹا، کسی چیز کا ہوا کے رخ اس
 طرح ہاتھوں پر لینا کر زمین پر گرنے نہ پائے۔
 گوچنی - گوچنی، ۱۶-۱۱-۱۱۔ مٹا، گہیوں اور پتے ملا ہوا غلہ۔
 گوچی - ۱۶-۱۱-۱۱۔ مٹا، آغوش - پہلو کنار۔
 گوچھانا - ۱۶-۱۱-۱۱۔ مٹا، مہینہ بنا لے یا پاک بنا۔
 گوچھنا - ۱۶-۱۱-۱۱۔ مٹا، محاورہ، احاطہ عورتوں کی ریشم، گھون کے طور پر دوسری عورتیں
 حاضر کی گود میں سات قسم کے میوے سے ایک سات قسم کی ترکاریاں رکھتی ہیں۔
 گوچھری - ۱۱-۱۱-۱۱۔ مٹا، اپنے والی صاحب اولاد۔
 گوچھری رہے - ۱۶-۱۱-۱۱۔ مٹا، دعا، گود میں ہر وقت بچ رہے۔ اولاد زندہ
 سلامت رہے۔
 گوچھار کے کوسنا - ۱۱-۱۱-۱۱۔ مٹا، ہاتھ پھیلا کے یا دامن پھیلا کے
 کسی کے لیے بد دعا کرنا۔
 گوچھارنا - گوچھیلانا - دامن پھیلانا - مانگنا - سوال کرنا۔
 گوچھینا - ۱۶-۱۱-۱۱۔ مٹا، محاورہ، اپنا بچہ کسی گود میں ڈالنا۔
 گوچھکا - ۱۶-۱۱-۱۱۔ مذم، دودھ پیتا بچہ، شیر خوار، ۱۶-۱۱-۱۱۔ مٹا، بچہ جو گود میں ہو۔
 گوچھکا پالا - ۱۶-۱۱-۱۱۔ مذم، بہت پیارا۔
 گوچھکھلانا - ۱۶-۱۱-۱۱۔ مٹا، محاورہ، بچے کو گود میں رکھ کر بہلانا، گود میں پالنا، پرورش کرنا۔
 بچہ کو دودھ پلانا۔
 گوچھکھلایا گود میں نہیں رہتا - ۱۱-۱۱-۱۱۔ مٹا، انسان ہمیشہ کیساں اور ایک
 حال میں نہیں رہتا۔
 گوچھلینا - ۱۱-۱۱-۱۱۔ مٹا، مہینہ کرنا۔ لے یا پاک بنا۔
 گوچھین لڑکا شہر میں ڈھنڈھ اور ۱۱-۱۱-۱۱۔ مٹا، چیز پلاس پڑی ہے اور تلاش
 کسی اور جگہ کی جاتی ہے۔
 گوچھ میں لینا - ۱۶-۱۱-۱۱۔ مٹا، محاورہ، گود میں لینا۔ آغوش میں لینا۔ دونوں
 زانوؤں پر بٹھانا۔
 گودا - گوچھ (۱۰-۱۱-۱۱) مذم، مغز بھیجا، ۱۶-۱۱-۱۱۔ مٹا، اندر دنی حصر دم، خلاصہ۔

کسی چیز کا بہترین حصہ، ۱۵-۱۱-۱۱۔ مٹا، کسی بزرگ کی نرم چیز، مغز، ستخوان۔
 گودا نکالنا - ۱۱-۱۱-۱۱۔ مٹا، ہڈی سے مغز باہر نکالنا۔
 گودے دار - ۱۶-۱۱-۱۱۔ مذم، پر مغز، ۱۶-۱۱-۱۱۔ مٹا، گودے دار۔
 گودام گداام - (Godown) کا مورو - گو - دام - گ۔ دام - دام،
 ۱۱-۱۱-۱۱۔ مذم، ذخیرہ، ڈھیر، انبار۔
 گودڑ - گوڑ، ۱۶-۱۱-۱۱۔ مذم، مٹھا، ٹھانا، اور ناکارہ پڑا، پڑائی روٹی جو لاف
 وغیرہ سے نکالی جائے، ۱۶-۱۱-۱۱۔ مٹا، آنکھوں کا میل۔
 گودڑ نیکل - ۱۶-۱۱-۱۱۔ مٹا، مٹھا اور ہڈی پر عورت۔
 گودڑ کا لال (لعل) - ۱۶-۱۱-۱۱۔ مذم، وہ شریف اور نجیب شخص جو غلطی میں مبتلا
 ہو، زہور آدی بچھے پڑانے لباس میں (۲)، وہ صاحب کمال جس کا حال
 معلوم نہ ہو، چھپا رہا۔
 گودڑ کا سٹھنا - ۱۶-۱۱-۱۱۔ مٹا، ہاتھ پانے کپڑے میں بیوند لگانا۔
 گودڑ میں سے گندوڑا نکالنا - ۱۶-۱۱-۱۱۔ مٹا، محاورہ، جاہلوں کے ہاں عالم کا پیدا
 ہونا، بڑوں میں اچھا نکالنا۔
 گودنا - گوڈ، ۱۶-۱۱-۱۱۔ مٹا، بدن میں سوئی سے سُر مہ یا نیل بھرنا، ۱۶-۱۱-۱۱۔
 آم یا آملہ یا کسی اور پھل میں سوئی یا کسی اور شے سے سوراخ کرنا۔
 گوڈوہ - ۱۶-۱۱-۱۱۔ مذم، کیل کالو پڑا۔
 گوڈی - گوڈی، ۱۶-۱۱-۱۱۔ مٹا، گوڈا، آغوش - کنار، جمبولی، ۱۶-۱۱-۱۱۔ مٹا، کوکھ رس،
 دامن - آنکھ (م)، چند گاہ کا ایک حصہ۔
 گوڈی پھیلا پھیلا کر دعا دینا - ۱۶-۱۱-۱۱۔ مٹا، دل سے دعا دینا۔
 گوڈی میں بیٹھنے کے واسطی نوچے - ۱۱-۱۱-۱۱۔ مٹا، بہت بے ادب ہے جس
 سے نفع حاصل کرے کسی کو توہین کرے۔
 گوڈا - گوڈا، ۱۱-۱۱-۱۱۔ مذم، گھٹنا، ٹانوا۔
 گور - ۱۶-۱۱-۱۱۔ مٹا، ایک ہندوستانی راگنی کا نام، ۱۶-۱۱-۱۱۔ مٹا، پارٹی۔
 ۱۶-۱۱-۱۱۔ مٹا، ہندوؤں کی ایک رسم۔
 گور - ۱۶-۱۱-۱۱۔ مٹا، قبر، تربت - مزار۔
 گور بنانا - ۱۶-۱۱-۱۱۔ مٹا، محاورہ، قبر کھودنا۔
 گور پر چونا پھیرنا - ۱۱-۱۱-۱۱۔ مٹا، محاورہ، مرے ہوئے کی یاد تازہ کرنا۔
 نام رو پیش کرنا۔
 گور پر رونا - ۱۶-۱۱-۱۱۔ مٹا، محاورہ، قبر پر بیٹھ کر رونا، کسی کے اچھے صفات یاد
 کر کے رونا۔
 گور رسمت - ۱۶-۱۱-۱۱۔ مٹا، صیغہ، قبر کی پرستش کرنے والا۔
 گور پر گور نہیں ہوتی - ۱۶-۱۱-۱۱۔ مٹا، ایک شخص کے قابض ہوتے ہوئے
 دوسرے کو دخل نہیں ہوتا۔
 گور جھانک آنا - ۱۶-۱۱-۱۱۔ مٹا، محاورہ، بیمار کا مرتے مرتے نوحہ جانا۔
 گور خانہ - ۱۶-۱۱-۱۱۔ مٹا، مقبرہ - قبر، خار، گرگھار، ۱۶-۱۱-۱۱۔ مٹا، ایسا مکان جس میں
 کھڑکی روشن خانہ نہ ہو۔
 گور خضر - ۱۶-۱۱-۱۱۔ مذم، جنگلی گدا۔
 گورستان - ۱۶-۱۱-۱۱۔ مٹا، قبرستان - مڑوں کے دفن ہونے
 کی جگہ۔

گورنرس (Governess) (گک۔ فدینس، اگک۔ ۱۰) منٹ) استانی نازوں
 انائنٹ۔ روس کے گھروں میں جمے بچوں کی نگران۔
 گورنر (Governor) (گک۔ وڈر، نر، اگک۔ ۱) مذم۔ حاکم اعلیٰ۔
 نانٹم اعلیٰ، صوبے کا حاکم اعلیٰ (۲)، کالج یا سکول کا انیسٹر اعلیٰ یا اس
 کی مجلس انتظامیہ کا ذمہ دار (۳) وہ پوزیشن جس کے ذیلے مشین کرکٹس
 پہنچتی ہے۔
 گورنر جنرل (Governor General) (صوبہ دار
 اعلیٰ۔ وائسرائے۔
 گورنری (گک۔ وڈر، نر، اگک۔ ۱) منٹ) گورنر کا عہدہ (۲)، گورنر
 کی حکومت۔
 گورنمنٹ (Government) (اگک۔ فون، منٹ، اگک۔ ۱) منٹ)
 حکومت حکمران، سیاست (۲)، اختیار (۳)، سرکار۔
 گورنمنٹ ہاؤس (اگک۔ ۱)۔ مذم۔ گورنر کی سرکاری اقامت گاہ
 گورنر (گک۔ وڈر، نر، اگک۔ ۱)۔ مذم۔ گائے بھینس اور دوسرے سینک
 والے مویشی۔
 گورور (گک۔ وڈر، نر، اگک۔ ۱)۔ مذم۔ دیکھ کر گد کے مرکبات۔
 گوری (گک۔ برسی، اگک۔ ۱) منٹ) ہما دیو کی استری (۲)، چھوٹی بچی
 بائرمہ۔ دو فسیہ (۳)، ہاکوس رنگ کی دوسری رنگی کانام (۵) صف (۶)،
 گوراکھی تانہنت۔ سفید چٹنی خوبصورت عورت۔
 گوری کا جوہن چٹکیوں میں جانا (۱)۔ محاورہ) کسی کے سخن کی بے قدری
 ہونا کسی چوڑی تونلی کا بے فائدہ ضائع ہانا۔
 گوریا۔ گوریا۔ گور۔ یا (گک۔ برسی، اگک۔ ۱) منٹ) چڑیا (۲)، مٹی کا
 چھوٹا حقہ۔
 گوریلا (Gorilla) (اگک۔ وڈر، نر، اگک۔ ۱) منٹ) بن مانس۔
 گوریل جنگ (اگک۔ ۱) منٹ) چھپے ہوئے سہا بیوں کی لڑائی۔
 گوریلا سپاہی (اگک۔ ۱)۔ مذم۔ غیر منظم مسلح قوت کا ایک رکن چھپے مار
 گور (اگک۔ ۱)۔ مذم۔ بنگال کا درمیانی حصہ (۲)، گولڈ کا شندہ (۳)، برہمنی کا ایک اعلیٰ
 فرقہ (۴)، بنگال کے قدیم دار الحکومت کا نام۔
 گور (اگک۔ ۱)۔ مذم۔ بافل۔ قدم تھا۔ پٹلی، ٹانگ (۳)، کندہ دم، گڑاق (۵)، جاؤ
 دق (۶)، زمین کھودنا۔ کھیت یا تھالے کی مٹی کھود کر پٹنا۔
 گور پڑنا۔ گور لگنا۔ (۱)۔ محاورہ) ہاؤں پڑنا۔ خوشاد کرنا۔
 گور دینا۔ گورے کے رکھ دینا۔ (۱)۔ محاورہ) خراب کر دینا۔ پڑھا کھا
 مچھلا دینا۔
 گور (اگک۔ ۱)۔ مذم۔ گور۔ گور۔ گور۔
 گورے بے سار جانا۔ (۱)۔ محاورہ) پاؤں پھیلا دینا (۲)، ہمت ہار دینا
 حوصلہ چھوڑ دینا۔
 گورے لوٹ جانا۔ (۱)۔ محاورہ) کھٹنے ٹیٹ جانا (۲)، چلتے چلتے ہانگیں تھک
 جانا چلنے کی ہمت نہ رہنا (۳)، ناامید ہو جانا۔
 گورنا۔ گورنا۔ (اگک۔ ۱)۔ مذم۔ ہل جانا۔ زمین کھودنا (۲)، اناج صاف کر کے
 جس سے نکانا (۳)، خراب کرنا۔

گور سے بیٹھ نہ لگتا۔ (۱)۔ محاورہ) مرنے کے بعد بھی چین نہ ملنا۔
 گور غریبان۔ زمین کا وہ ٹکڑا جہاں مسافروں کو دفن کرتے ہیں۔ بیکسون
 کا گورستان غریبوں کی ٹوٹی چھوٹی قبروں۔
 گور کا منہ جھانک کر نا بھرنا، (۱)۔ محاورہ) کسی ہلکے بیماری سے نجات
 رہانا۔ (۲) سرونڈنگی حاصل کرنا۔
 گور و قطن کرنا۔ (۱)۔ مذم۔ تجسیم و قطن کرنا۔
 گور کرن (اگک۔ ۱)۔ مذم۔ قمر کھودنے والا۔ وہ شخص جس کا پیشہ قبر کھودنے اور مردہ
 دفن کرنے کا ہے۔ (۲) کندن مصدر سے بمعنی کھودنا۔
 گور کنا سے جا لگنا (پہنچنا)۔ (۱)۔ محاورہ) مرنے کو تیار بیٹھنا، قریب مرگ
 ہونا (۲)، نہایت بوڑھا ہونا۔
 گور کی گود میں پلنا۔ (۱)۔ محاورہ) کمال ایذا اور تکلیف میں پرورش پانا۔
 گور کے مردے اٹھانا۔ (۱)۔ محاورہ) وہ چھٹی باتوں کو یاد کرنا (۲)، پاسے
 جھکے لے نکانا۔
 گور کے مردے سے بڑتر ہو جانا۔ (۱)۔ محاورہ) کمال لاغر اور ضعیف
 ہو جانا۔
 گور گال۔ ۶۔ صف) عیش و عشرت کرنے والا (۲)، تیمور کا لقب۔
 گور کٹھا۔ (۱)۔ مذم۔ تجسیم و قطن۔
 گور کٹھا کرنا۔ (۱)۔ محاورہ) مردے کی تجسیم و قطن کرنا (۲)، نیست و
 نابود کرنا۔
 گور میں انکار سے بھرنا۔ (۱)۔ محاورہ) گنے گار ہونا۔ بدی کرنا۔
 عذاب کمانا۔
 گور میں پاؤں لٹکانے بیٹھے ہیں۔ (۱)۔ مثل) چند روز کے ہمان
 بین۔ نہایت بوڑھے ہیں۔ مرنے سے قریب ہیں۔
 گور میں دھواں اٹھنا۔ (۱)۔ محاورہ) عذاب قبر ہونا۔ قبر میں
 سکننا۔ جلنا۔
 گور میں کھڑے ٹرس۔ لاش میں کھڑے ٹرس (دید دعا)۔
 گور میں لات مار کر کھڑا ہونا۔ (۱)۔ محاورہ) سخت بیماری
 سے شفا پانا۔
 گورزا۔ (۱)۔ مذم۔ صفت چٹا۔ سفید رنگ والا (۲)، خوبصورت۔ حسین۔
 (۳)، یوہین سپاہی۔ فرنگی۔
 گوراین۔ (۱)۔ مذم۔ رنگ کی سفیدی۔ صباوت۔
 گورا جٹا۔ (۱)۔ صف) خوبصورت۔ حسین و جمیل۔
 گوراشاہی۔ گوروں کے استعمال کا مضبوط (۲)، فرنگی سپاہیوں کے پہننے
 کا بہت مضبوط پوٹ۔
 گورا لٹھا۔ (۱)۔ مذم۔ سرخ و سفید (ق)۔
 گورا گورا۔ (۱)۔ صف) بہت خوبصورت۔ حسین و صبح۔
 گور (اگک۔ ۱)۔ مذم۔ چڑیا کا کر۔ گوریا کا کر۔
 گور کھا۔ (۱)۔ مذم۔ نیپال کا پیشہ و رسا سپاہی۔ نیپالی۔
 گور کھ دھنڈا۔ (۱)۔ مذم۔ دھن۔ (۲)۔ مذم۔ ایک پیچیدہ فعل جس کا
 کھولن مشکل ہوتا ہے (۳) پیچیدہ معاطہ۔

گولڑی (گولڑی، ۵۶-۱۔ مٹا) فائدہ - نفع - وہ مال جو محنت و مشقت کے بغیر حاصل ہو (۲۲ چوری کرتا - لے جانا (۳، ۶) گولڑی شراب (۴) ایک دانگی -

گولڑی کرنا - ۱۶- محاورہ کم مانا (۲۲) فائدہ اٹھانا -

گولڑی ہاتھ سے جانا - ۱۶- محاورہ کمائی نہ ہونا - کچھ ہاتھ نہ لگنا - (۲) شکار جانا رہنا -

گولڑیت - رنگ - ٹہیت (۶) ۱- مذم کا ڈول کا چوکھدار (۲) خبر -

گوز - ۱۶- مذم یاد - یریح - وہ گندی ہوا جو مقعد سے باآواز خارج ہو -

گوز اڑانا - گوز مارنا - ۱۶- محاورہ یاد ماننا - بادی پھیلانا -

گوزہ - گوز و صنوبر و صنو - ۱۶- مثل، ایسے سکار کی نسبت کہتے ہیں -

گوز شتر - (۶) نصف ابلے بنیاد - بے وقت - یاد ہوئی - بیہودہ -

گوز شتر زمین کا نہ آسمان کا - ۱۶- مثل ایسے شے جسے ہاتھ کی نسبت کہتے ہیں -

گوز شتر سمجھنا - ۱۶- محاورہ خاطر میں نہ لانا - بیہودہ اور لغو خیال کرنا

گوزن - (گو - زن) (۶) ۱- مٹا پہاڑی یا جھگلی گائے - بارہ سنگھا - سانجھ -

گو سالہ - (گو - سا) (۶) ۱- مذم گائے کا ایک سالہ بچہ - بچھڑا - جمع - گو سالہ ہا -

گو سالہ فلک - (۶) ۱- مذم برج ثور -

گو سیند گو سفند - (گو سن - پندہ گو سن - سفند) (۶) ۱- مٹا بھڑ بھڑی -

گو ش - (۶) ۱- مذم کان - جمع - گو ش ہا -

گو ش براوازہ ہونا - (۶) نصف کسی کی بات کے سننے کا منظر ہونا کسی

گو ش فیر کے آنے کی امید رکھنا -

گو ش کریدہ - (۶) نصف کن گنا - جس کا کان گنا ہو -

گو ش بھڑیاد - (۶) نصف فریاد سننے پر متوجہ -

گو ش دل سے سننا - (۱۶) محاورہ ذوق و شوق سے سننا بڑی توجہ سے سننا -

گو ش زور - (۶) مذم بات چوستی جائے -

گو ش شنوا - (۶) ۱- مذم سننے والا کان - جو سن کر کہا جائے اور عبرت حاصل کرے -

گو ش گزار کرنا - ۱۶- محاورہ سننا - اطلاع دینا - آگاہ کرنا -

گو ش مال - (۶) ۱- مٹا تشبیہ و تادیب - سزا -

گو ش مالی (گو شمالی) دینا - ۱۶- محاورہ کان ایٹھنا - تشبیہ کرنا -

گو شوارہ - (۶) ۱- مذم کان کا بالادیزہ (۲) بہت بڑا موتی (۲) خلاصہ

گو ش حسابی میزان جوڑ رہا کسی نقشے یا درجہ کی پیشانی -

گو ش ہوس - (۶) ۱- مذم ہتھیاری -

گوش ہوش سے سننا - ۱۶- محاورہ غور سے سننا - نصیحت پکڑنا -

گوشت - (۶) ۱- مذم لحم - ماس -

گوشت پوست - (۶) ۱- مذم تمام اعضاء -

گوشت تھر - ذم ان سگت - ۱۶- مثل (خراب چیز خراب جگہ میں ہوتی ہے)

گوشت معنی گدھے کا گوشت تھے کے دانتوں کے لیے ہے، دو بڑے شخصوں کے آپس میں لڑنے کے موت پر کہا جاتا ہے -

گوشت خوار - (۶) ۱- نصف گوشت کھانے والا -

گوشت سے ناخن جدا کرنا - ۱۶- محاورہ (۲) اپنوں کو چھڑانا - گہرے دوستوں میں تفرقہ ڈالنا -

گوشت سے ناخن جدا ہونا - ۱۶- محاورہ (۲) اپنوں کا چھوٹ جانا کوئی ناممکن اور دشوار کام ہونا -

گوشت کا لوٹھڑا - ۱۶- مذم گوشت کا ٹکڑا (۲) بالکل نکاح سے کچھ نہ ہو سکے -

گوشت کا بوج - بوقوف -

گوشت میں بھرا ہونا - ۱۶- محاورہ (۲) گوشت ہونا - فیر ہونا -

گوشت ناخنوں سے کبھی جدا نہیں ہوتا - (۱۶) مثل (۲) انسان رشتہ داری اور عزیزوں سے جدا نہیں ہو سکتا -

گوشتہ - (گو شہ) (۶) ۱- مذم گوشتہ (۲) خلوت - تنہائی - کنارہ - تخلیہ (۳) طرف جانب رہم - کمان کا سرا -

گوشتہ تنہائی - (۶) ۱- مٹا تنہائی کی جگہ - خلوت -

گوشتہ پشتیم - (۶) ۱- مذم کھانا کونہ -

گوشتہ دار - (۶) ۱- مذم کونے رکھنے والا -

گوشتہ دل میں جگہ دینا - ۱۶- محاورہ (۲) یاد رکھنا -

گوشتہ زنجیر - (۶) ۱- مذم زنجیر کا حلقہ -

گوشتہ معافییت - (۶) ۱- مذم وہ جگہ جہاں کوئی جھگڑا بکھیڑا نہ ہو -

گوشتہ کی جگہ -

گوشتہ کماں - (۶) ۱- مذم کمان کی لوک جس میں تانتا اٹسی ہوتی ہے -

گوشتہ گہیر ہونا - ۱۶- محاورہ گوشتہ نشین ہونا - دنیا سے کنارہ کش ہونا -

گوشتہ میں بیٹھنا - ۱۶- محاورہ محکف ہونا - دنیا کے بکھیڑوں سے الگ ہو جانا -

گوشتہ نشین - گوشتہ گزین - (۶) ۱- نصف تنہائی میں رہنے والا - سب سے الگ رہنے والا - تارک الدنیا -

گوشتہ نشینی - (۶) ۱- مٹا عزت - تنہائی - علیحدگی -

گوٹھل - (گو ٹھل) (۳) ۱- مذم کرشن جی کی پیدائش کا مقام -

گوٹھنا - (گو ٹھنا) (۳) ۱- مذم گائے کا چھڑا - اٹمن - بوقوف -

گوٹھڑو - (گو ٹھڑو) (۳) ۱- مذم ایک کتا جو سگ گوشتہ ہوتا ہے - بھگڑا -

گوٹھڑا کا پودا - (۳) ۱- لوسے کے بیٹے ہونے کا نئے جو دشمن کی راہ میں ڈال دینے میں (۳) دم، کان کا ایک زیور (۵) مقدیش کا موٹا ہوا گولہ -

گولگا - درگوا کا (۱۰۔ مذ) خاکروہوں کا پیر۔
 گولگندہ - گوگرد (۱۰۔ مذ) گندھک - بریت۔
 گولگول - گوگرد (۱۰۔ مذ) ایک درخت کا خوشبودار گوند۔
 گوگلی (Google) (گوگ - گلی) (۱۰۔ مذ) کرکٹ کی گیند پھینکنے کا ایک طریقہ۔
 گول - (Goal) (انگ - مذ) ہاکی - پولو - فٹ بال اور بعض دوسرے مغربی کھیلوں میں دونشاؤں کے بیچ کی جگہ جس میں ہاکی وغیرہ کی گیند کھلتے ہیں (۳،) ایک بانگ جیت۔
 گول - (۵۱۔ صفت) مدور - بچکر دار (۲،) وہ بات جو بوجہ سمجھ میں نہ آئے بشکوک اور پندار بات (۳،) کرہ - دائرہ۔
 گول بات - (۱۶۔ صفت) مبہم بات - جو ٹھیک طرح سمجھ میں نہ آئے بیچ دار بات۔
 گول بدن - (۱۶۔ مذ) جسم جو مٹاپے کی دیر سے گول ہو گیا ہو۔
 گول شاخ - (۱۶۔ مذ) بھری کوئی شاخ جو کسی جانب دلی ہوئی نہ ہو۔
 گول گیا - (۱۶۔ مذ) گول مٹول - موٹا تازہ (۲،) ایک قسم کی مٹھائی۔
 گول کٹارہ - (۱۶۔ مذ) گولین کا کل چرخ۔
 گول کمال - (۱۱۔ صفت) مشتبہ - مبہم - مشکوک (۲،) مدور - گول۔
 گول گول کہنا - (۱۶۔ محاورہ) صاف صاف نہ کہنا - اس طرح بیان کرنا کہ سبھی سمجھ میں نہ آئے۔
 گول گھر - (۱۱۔ مذ) تید خانہ۔
 گول مال - (۱۶۔ مذ) ڈلا جلا - جلا جلا (۲،) سازش (۳،) ضیق - ضیانت۔
 گول مال کرنا - (۱۶۔ محاورہ) گڈ گڈ کرنا (۲،) ضیق کرنا ضیانت کرنا (۳،) غائب کرنا جبرائیل (۲،) اٹ سٹ کرنا - سازش کرنا۔
 گول مریچ - (۱۶۔ صفت) کالی مرتج۔
 گول منہ - (۱۶۔ مذ) آفتابی چہرہ - چوڑا منہ۔
 گول مٹول - (۱۶۔ مذ) مدور - نہایت گول (۲،) موٹا تازہ اور ٹھنڈا آدی (۳،) موٹا بے وقت۔
 گول مول جواب - (۱۶۔ مذ) جو عیدہ جواب - مبہم جواب۔
 گول پور ہینا - خاموش ہو رہنا - جواب نہ دینا۔
 گوللا - (۱۶۔ مذ) لگھیرا (۲،) تاگول کی چمک (۳،) گیند (۴،) ستون کے گرد آگ بھرا ہوا حلقہ (۵،) ایک قسم کا کیوترا (۶،) پٹلی کا قالب جس پر دستا رہندہ گڑھی باندھا کرتے ہیں (۷،) ناریل کے اندر کی گڑھی (۸،) انانج کا کوشٹا (۹،) کی مٹی (۱۰،) پکا کنواں جو اندر سے آگ لگائی گیا ہوا (۱۱،) گیند (۱۲،) رقی (۱۳،) بڑی گولی جو گول میں ڈالتے ہیں (۱۴،) ہا جو انسان کے پیٹ میں کھوٹی ہے اور اس سے درد اٹھاتا ہے - (۱۵،) آن چربی ہوتی چلانے کی گول بگڑھی (۱۶،) مٹی شرک کا درمیانی بھرا ہوا حصہ (۱۷،) ایک قسم کی آفتابنی۔
 گوللا اٹھانا - (۱۶۔ محاورہ) پرائی رزم کے مطابق اپنی صداقت اور بات

کے لیے چلتے ہوئے لوہے کو ہاتھ میں بکڑ لینا کہ اگر کم سچے ہوں گے تو اس گرم لوہے کا کوئی اثر نہ ہوگا اور جو ٹھنڈے ہوتے تو جلا رہے گا۔
 گوللا جلا نا - (۱۶۔ محاورہ) گوللا مارنا - توپ چھڑانا۔
 گوللا دھار برستا - (۱۶۔ محاورہ) موسلا دھار مینہ برستا - نہایت زور سے بارش ہونا۔
 گوللا لالچی - (۱۶۔ صفت) ہاتھ پاؤں سمیٹ کر لینے کی حالت۔
 گوللا لالچی کرنا - (۱۶۔ محاورہ) ہاتھ پاؤں باندھ کر گھٹنوں میں لالچی دے کر اٹھانا جو ایک سزا ہے (۲،) مائل بھی چھوٹے بچوں کے چاروں ہاتھ پیرا رکھنے پیرا کران کو اٹھاتی ہیں جو بچوں کی ایک ورزش ہے۔
 گوللائی - (گو۔ لائی) (۱۰۔ صفت) دور - بچکر۔
 گولڈ - (Gold) (انگ - مذ) سونا - زر طلا (۲،) رقیبہ - پیسہ - مال دولت (۳،) خوبصورت - شاندار - قیمتی۔
 گولڈن - (Golden) (انگ - مذ) گولڈن - (انگ) صفت اطلالی - سنہری - سونے کا (۲،) چمکدار - قیمتی - عمدہ (۳،) زرخیز۔
 گولڈن - (گو۔ لائی) (۱۰۔ صفت) ایک درخت اور اس کا پھل جو انجیر سے مشابہ ہوتا ہے (۲،) پاس - رول کا ڈوڈا۔
 گولر کا کھیل - (۱۶۔ مذ) نایاب کیلیب - ناپید۔
 گولر کا پیٹ پھڑوانا - (۱۶۔ محاورہ) بھید کھلوانا - پوشیدہ یا دبی ہوئی بات کو ظاہر کرنا۔
 گولر کا کیاب - (۱۶۔ مذ) ایک قسم کا کیاب جو گوشت کو جوش دے کر اور پودینہ اور سرخ مریچ بھر کر پکا ہے۔
 گولر کا کپڑا - (۱۶۔ مذ) وہ کپڑا جو گولر کے اندر رہتا ہے (۲،) وہ شخص جو گھر سے باہر نکلتا ہو - تنگ نظر - قدامت پرست۔
 گولر گینا - (۱۶۔ محاورہ) جیبا چیرا کرنا۔
 گولف - (انگ - مذ) دیکھیے گالف۔
 گولگ - (گو۔ لگ) (۱۰۔ صفت) مد و منٹ (غلہ - گلہ - روزمرہ کی بکری رکھنے کا طرف (۲،) حرامی بچکر۔
 گولر انداز (گولنڈاز) - (گو۔ لگ - واز) (۱۰۔ صفت) توپ چلانے والا - توپچی۔
 گولرہ - (گو۔ لہ) (۱۰۔ صفت) گیند (۲،) دھات یا مٹی کی گول شکل (۳،) گڑھ - توپ کا گولہ۔
 گولرہ باری کرنا - (۱۶۔ محاورہ) توپ کے گئے پھینکنا۔
 گولی - (گو۔ لی) (۱۰۔ صفت) گولائی تصغیر (۲،) کسی ٹھوس چیز کی مدور شکل۔
 گوللا (۱۶) (۱۰۔ صفت) ہندوئی یا پستوں کی گولی (۵،) انیون کی گولی (۶،) زرد کی ہیکے (۷،) چھوٹی گول چیز (۸،) بچوں کے کھیلنے کی گولی۔
 گولی بارود میں جاتے، طلب لینے سے کام۔ (۱۶۔ صفت) کسی کام بڑے یا سونے اپنے مطلب اور خواہ سے کام ہے۔
 گولی بجا جانا - (۱۶۔ محاورہ) کسی شکل کام یا مصیبت کے وقت الگ ہو جانا۔
 گولی بنانا - (۱۶۔ محاورہ) کسی چیز کو مدد شکل میں بنانا۔

گوندہ ملار۔ رگوندہ۔ م۔ لار، ۵۶۔ ۱۔ مٹام ایک قسم کی ہندوستانی راگنی۔
 گونڈا۔ رگول۔ ٹا، ۵۶۔ ۱۔ مذہباز کا پشتیر۔
 گونگا۔ رگول۔ گا، ۵۶۔ ۱۔ مذم وہ شخص جو بول نہ سکے۔ گنگا، ۲، چپ
 پاب خاموش۔
 گونے کا اشارہ گونگا ہی سمجھے۔ ۱۶۔ شل ۲، جنس اپنی ہی جنس سے
 میل کھاتی ہے۔
 گونے کا خواب یا سپنا۔ ۱۱۔ مذم وہ بات جس سے آدمی داقت ہو گز رہاں سے
 نہ کہہ سکے، ۲، بہم بات جس کا سمجھنا مشکل ہو۔
 گونے کا گڑا۔ وہ لذت جو بیان نہ ہو سکے
 گونے کا گڑ کھانا۔ ۱۲۔ جمادہ ۲، جب سارہنا کچھ بیان نہ کر سکتا۔
 گونے کا گڑ نہ کھانا نہ میٹھا۔ ۱۱۔ شل ۱، بیان نہ کر سکنے کے قابل۔
 ناقابل اظہار۔
 گونے کی منٹھائی۔ ۱۶۔ مٹا نہایت ہی لطیف اور مزیدار چیز۔ ایسا لطف
 بر جو بیان سے باہر ہو۔
 گونے نے سپنا دیکھا من ہی میں پچھتائے۔ ۱۶۔ شل کسی بات کے
 بیان کرنے کو چاہے مگر بیان نہ کر سکے۔
 گونگی۔ رگول۔ گی، ۵۶۔ ۱۔ مٹا گونگی تائیت۔ وہ عورت جو
 گونے بول نہ سکے۔
 گونگھون۔ رگول۔ گم۔ مٹا ۱۰۔ ۵۶۔ مذم منٹھا کر چپ، بولنے والا۔
 گونہ۔ رگول۔ نہ، ۶۱۔ ۱۔ صفت اسلوب، وضع، کسی قدر۔
 گونہ گونہ ۱۔ صفت طرح طرح کا۔ اذاع و اقسام کا۔
 گوہنہار۔ رگول۔ ہار، ۵۶۔ ۱۔ مذم مٹا وہ عورتیں جو دلہن کے ساتھ
 بیٹے سے سسرال جاتی ہیں، ۲، وہ لوگ جو دلہا کے ساتھ گونے کے
 لیے جلتے ہیں۔
 گونگی۔ اق۔ ۱۔ مٹا بانی یا غلہ رکھنے کا جڑا مٹی کا برتن۔
 گونگی۔ رگ۔ جی، ۱۶۔ ۱۰۔ مٹا شیر کے رہنے کی جگہ۔ خار۔ گھو۔
 گونیا۔ رگول۔ یا، ۶۱۔ ۱۰۔ مٹا ایک شگفتہ شکل کا اونار جس سے عمارت
 یا دیوار کی مٹی اور راستی دریافت کتے ہیں۔
 گوہ۔ ۵۶۔ ۱۔ مٹا ایک رینگنے والا جانور جو پھسکل کے مشابہ ہوتا
 ہے۔ سوسما۔
 گوہ۔ ۵۶۔ ۱۔ مٹا دیکھنے گڑا اس کے مرکب تک بھی وہاں دیکھیے،
 گوہ جی جی۔ رگ۔ ہا۔ جی، ۱۶۔ ۱۔ مٹا غلاقت۔ نجاست۔
 پلیدی، ۲، بک۔ بک۔ جھک۔ جھک دگالی۔ بد تہذیبی، ۳، جھکڑا
 ۴، رسوائی، ۵، بخت۔ بھگوار
 گوہار۔ رگول۔ ہار، ۵۶۔ ۱۔ مٹا فادیلہ۔ فریاد۔ استغاثہ، ۲، غل
 شور، ۳، ایک آدمی کا کسی آدمیوں سے مقابلہ، ۴، گالی۔ گلوچ۔
 ۵، امدادی۔
 گوہار لڑائی۔ ۱۱۔ جمادہ ۲، ایک آدمی کا بہت سے لوگوں سے لڑائی کرنا۔
 گوہار لڑی۔ رگول۔ ہار، ۵۶۔ ۱۔ صفت اساجی۔ مدگار، ۲، میت نہ خیز زمین۔
 گوہان۔ رگول۔ ہان، ۵۶۔ ۱۔ مذم گاؤں۔

گونا گونگی۔ رگول۔ ہا۔ جی، ۱۶۔ ۱۔ مٹا اکھکی پھنسی جو بک کے نیچے ہوتی ہے۔
 گوہانی۔ رگول۔ ہا۔ جی، ۱۶۔ ۱۔ مٹا گاؤں کے آس پاس کے کھیت (۲)
 عمدہ قسم کی زمین۔
 گوہانی۔ رگول۔ ہا۔ جی، ۵۶۔ ۱۔ مٹا اکھکی کی پھنسی۔ رگول۔ ہا۔ جی، ۲، بیوں سے
 زندہ کر دے کانا کانا کھانا۔
 گوہر۔ رگول۔ ہر، ۶۱۔ ۱۔ مذم موتی۔ مروارید، ۲، جواہر۔ قیمتی چھر، ۳،
 مادہ۔ اصل نسل۔
 گوہر آگلیں۔ ۱۶۔ صفت ادھ چیز جس میں موتی جڑے ہوں۔
 گوہر افشال۔ ۱۶۔ صفت فیض پہنچانے والا، ۲، خوش بیان۔
 گوہر مار۔ ۱۶۔ صفت موتی برسانے والا۔ ابر زبان اور قلم کی صفت
 میں استعمال ہوتا ہے۔
 گوہر بندھنا۔ ۱۱۔ جمادہ ۲، موتی میں سوراخ کرنا۔
 گوہر تاب۔ ۱۱۔ مذم ایک برہمن جسے عورتیں گرمیوں کے موسم میں ہنستی ہیں اور
 وہ اس قدر باریک تھپتھے کہ سارا جسم نمایاں ہوتا ہے۔
 گوہر تر۔ ۱۶۔ مذم آسودہ، اچھی باتیں۔
 گوہر سفتہ۔ ۱۶۔ ۱۔ مذم بندھا ہوا موتی، ۲، وہ بات جو شہور ہو۔
 گوہر سبج۔ ۱۶۔ صفت خوش بیان۔
 گوہر شب تاب۔ گوہر شب چراغ۔ ۱۶۔ ۱۔ مذم ایک قسم کا نسل جو
 رات کو چراغ کی طرح چمکتا ہے۔
 گوہر غلطاں۔ ۱۶۔ ۱۔ مذم اعلیٰ قسم کا گوہر۔
 گوہر فردوس۔ ۱۶۔ ۱۔ مذم موتی جینے والا۔
 گوہر نگار۔ ۱۶۔ صفت جڑا۔ موتیوں سے جڑا ہوا۔
 گوہر سی۔ رگول۔ سی، ۵۶۔ ۱۔ صفت جوہری۔ موتی والا، ۲، گوہر کی آب و
 تاب رکھنے والا۔
 گوہر ہونا۔ رگول۔ ہونا، ۶۱۔ ۱۔ مذم ایک قسم کا سانپ۔
 گوہر ہی۔ رگول۔ ہی، ۶۱۔ ۱۔ صفت گڑے سے تھوڑا ہوا۔ بہت گندہ۔ غلیظ۔
 گوہر ٹھا۔ رگول۔ ٹھا، ۵۶۔ ۱۔ مذم اچھا کٹھا۔
 گوہر بندہ۔ رگول۔ ان۔ ۵۶۔ ۱۔ صفت کہنے والا کہنے والی۔ متجز۔ مہاسوس۔
 گوہر بندہ۔ رگول۔ انڈا، ۵۶۔ ۱۔ مٹا گاؤں کے پاس کی زمین۔
 گوہی۔ رگول۔ ہی، ۵۶۔ ۱۔ مٹا ایک ہل میں بیٹے ہوئے دو ذیل (۲)، روٹی کی وہ
 مقدار جو ایک بار انگلیوں میں توڑی جائے۔
 گوہے۔ رگول۔ ہے، ۶۱۔ ۱۔ مذم کیند۔
 گوہے ہانہ۔ ۶۱۔ صفت کیند کھیلنے والا، ۲، وہ ہانہ رگول کی کیند لے کر ہوا
 میں پھینکتا ہوا پکڑتا ہے۔
 گوہے سبقت لے جانا۔ ۱۱۔ جمادہ ۲، غالب آنا۔ بڑھ جانا۔
 گوہیال۔ رگول۔ یاں، ۵۶۔ ۱۔ مٹا، اسٹی۔
 گوہر نیٹرا۔ رگول۔ ایس، ۵۶۔ ۱۔ مذم گاؤں کے قوسب کی زمین۔
 گویا۔ رگول۔ یا، ۶۱۔ ۱۔ صفت بولنے والا، خوش گفتار، ۲، مانند۔ شل۔ جو ہوا، ۳، تسلیم
 کیا جانا، ۴، جولان نام۔
 گویا۔ رگول۔ ہی، ۵۶۔ ۱۔ مذم گانے والا۔ مطرب۔ مثنوی۔

گویائی - دگو - یا ای، ات - اے نطق - گفتار - بول چال - بات چیت -
 ۲۱ بولنے کی طاقت - فصاحت - بلاغت -
 گویم مشکل - دگر نہ گویم مشکل - ات - مثل کہوں تو مشکل نہ کہوں
 تو مشکل -

گ - ہ

گگ - ات - ظرف زمان (گاہ کا مخفف - کبھی -

گگ - ۶ - ات - ۱ - منٹ (کے یا مکان کی بلندی ۲، طبقہ - درجہ ۳، قبضہ - دستہ
 ہتھیار کے بگڑنے کی جگہ -
 گگ بیٹھنا - ۱۷ - محاورہ (جم کر بیٹھنا ۲، تلوار کے قبضے کا ہاتھ میں
 جم جانا -
 گگ جانا - ۱۷ - محاورہ (گرہن میں آجانا ۲، کسی کڑی چیز کا گھس جانا -
 گگ گیس - ات - ۱ - ندم سرکش گھوڑا -
 گگ گہر - رگ - ہر ات - ۱ - منٹ (کیلے کی پھلی -
 گگ رگ - ہر ات - ۱ - اند موقی جو ہر قیمت پر ۲، اصل نسل - حسب نسب
 ہر ذات - خاندان - مادہ - اصلیت -
 گگ ریز - گگ پاش - ات - ۱ - صف (موقی برسلنے والا ۲، نہیں
 پہنچانے والا -
 گگ راز - رگ - ۱ - ات - ۱ - صف (عمیق بے تھاہ - ڈباؤ ۲، نہایت تیز ۳،
 شوخ - گاڑھاوا ۴، بھاری - بکا ۵، غار - گڑھا -
 گگرا اخلاص - ۱۱ - صف (پچی دوستی بے حد محبت -
 گگرا پردہ - ۱۱ - منٹ سخت پردہ - بھاری اڈٹ - شرم و حجاب -
 گگرا بن - ۱۷ - منٹ گہرائی - گگرا ہونا -
 گگرا خیال - ۱۷ - منٹ دور کا خیال -
 گگرا دوست - ۱۷ - منٹ سچا دوست - بے تکلف دوست -
 گگرا رنگ - ۱۷ - منٹ شوخ رنگ - وہ رنگ جس میں سیاہی
 نمودار ہو -
 گگرا زخم - ۱۷ - منٹ کاری زخم - جھمک زخم -
 گگرا سہاگ - ۱۷ - منٹ میاں بیوی میں بے حد پیار ۲، بڑا
 میل جول -
 گگرا ہاتھ لگانا - گگرا ہاتھ مارنا - ۱۷ - محاورہ (زور کا ہاتھ مارنا ۲، بڑا
 بھاری غبن کرنا - بڑی چوری کرنا ۳، بہت نفع لگانا ۴، کسی بڑے خاندان
 کی عورت کے ساتھ تعلق پیدا کرنا -
 گگرا بارانہ - ۱۷ - منٹ (پچی دوستی -
 گگرسے سانس بھرتا - ۱۷ - محاورہ (ٹھنڈے سانس بھرتا - بے
 سانس کھینچنا -
 گگرسے کرنا - ۱۷ - محاورہ (بہت نفع اٹھانا - مال مارنا - خاطر خواہ
 فائدہ حاصل کرنا -

گگرسے ہونا - ۱۷ - محاورہ (خوب مکانا خوب مال ماننا -
 گگرسے یار ہیں - ۱۱ - محاورہ) بہت بے تکلف ہیں - دلی دوست
 ہیں - ایک جان دو غالب ہیں -
 گگرا نا - رگ - رنا - ۱۷ - منٹ (گگرا ہونا - عمیق ہونا -
 گگرا نا - رگ - رنا - ۱۷ - منٹ (بلند آواز سے ملانا - بکارنا -
 گگرا - رگ - رنا - ۱۷ - منٹ (تقریباً گگرا ہونا -
 گگرائی - رگ - رنا - ۱۷ - منٹ (گگراؤ کی تائید - گگرا ہونا -
 گگرسی - رگ - ری - ۱۷ - منٹ (گگرا کی تائید - عمیق ۲، گاڑھی رس بہت
 زیادہ دم، دھڑکی -

گگرسی بات - ۱۷ - منٹ (دور کی بات - باریک خیال - دقیق اور
 مشکل بات -

گگرسی چھٹنا - ۱۷ - محاورہ (نہایت گاڑھی جھنگ چھٹنا ۲، گاڑھی دوستی ہونا -
 نہایت اخلاص اور بکا بارانہ ہونا ۳، از حد لٹائی ہونا -
 گگرسی گھٹنا - ۱۷ - محاورہ (جھنگ کا کثرت سے رگڑا ادا پیا جانا ۲، بہت محبت
 ہونا - خاص بارانہ ہونا -
 گگرسی نیند سونا - ۱۷ - محاورہ (بے خبر سونا ۲، سگھ کی نیند سونا -
 آرام سے سونا -

گگسک - ۱۷ - منٹ (خوشی کی لہر ۲، نشے کی لہر ۳، نشے کے جوش میں ہونا
 ۴، تیز ہو کر بولنا -
 گگسک کر لولنا - ۱۷ - محاورہ (تیز ہو کر بولنا - سخت کلامی ۲، نہایت تپاک
 محبت اور گرم جوشی سے گفتگو کرنا -
 گگسکنا - رگ - ہنٹ - نا - ۱۷ - منٹ (خوشی سے بولنا ۲، نشے کے جوش میں ہونا ۳،
 تیز ہو کر بولنا -
 گگسکانا - رگ - گنا - نا - ۱۷ - منٹ (گگرا گنا -
 گگسکٹ - رگ - گگ - گگ - ۱۷ - منٹ (گگسک - گگرا - گگسکور - بھاری -
 گگما - ہنٹ - گگما - گگما - گگما - گگما - گگما - گگما - گگما - گگما - گگما - گگما -
 ۱۷ - منٹ (جہل پھیل - گرم بازاری - رونق - دھوم دھام - آدمیوں کی کثرت
 ۲، گگما - گگما - وہ آواز جو کونوں میں ڈول کے جنبش دینے سے
 پیدا ہوتی ہے -
 گگن - ۱۷ - منٹ (گگن - چاند یا سورج پر سایہ ۲، داغ - عیب ۳، بھنگل -
 گگن بڑنا - گگن لگنا - ۱۷ - محاورہ (کسوف اور خسوف ہونا ۲، عیب لگانا دھبہ
 لگانا - بدنامی یا رسوائی ہونا -
 گگن چھٹنا - ۱۷ - محاورہ (گگن کا اثر کم ہونا - چاند یا سورج میں گگن کے بعد
 روشنی کٹنے لگنا -
 گگن میں آنا - ۱۷ - محاورہ (کسوف یا خسوف میں ہونا ۲، آدمی یا حیوان کے
 کسی عضو کا ٹپھانا نقص پیدا ہونا -
 گگننا - رگ - نا - ۱۷ - منٹ (گگن لگنا ۲، گگن لگنا ۳، گگن لگنا ۴، گگن لگنا ۵،
 گگن رکھنا - ۱۷ - محاورہ (گگن رکھنا - رہن رکھنا -
 گگننے کا تار تک باقی نہیں - ۱۷ - منٹ (کسی قسم کا زور باقی نہیں
 گگننا - رگ - نا - نا - ۱۷ - منٹ (گگن لگنا - کسوف یا خسوف میں آنا ۲، مدیم

گھاتیں بتانا۔ چالیں بتانا۔ چال بازیوں سکھانا۔
گھاتے میں۔ ۱۱۔ تابع فعل، غریب کی ہوتی چیز سے زیادہ منافع میں
منفعت۔

گھائیو۔ ۱۰۔ ۱۱۔ صفت، وفا باز مکار، ہلک۔
گھائی۔ دگھاتی، ۱۰۔ ۱۱۔ صفت، موقع تاکنے والا۔ داؤ گھات رکھنے والا، چال
باز، خود غرض، مطلبی۔

گھاتیا۔ دگھات، ۱۰۔ ۱۱۔ صفت، وہ شخص جو کسی کی گھات میں رہے، ۲،
خود غرض، مطلبی۔

گھاتیں بتانا۔ ۱۷۔ محاورہ، چالیں بتانا۔ چال بازیوں سکھانا۔
گھات۔ ۱۰۔ ۱۱۔ مذموم دیا یا تالاب سے اترنے کا مقام، ۲، تلوار کی وہ جگہ جہاں
سے اس کا تم شروع ہوتا ہے، ۳، طرف، جانب۔ سمت، ۴، اگلیا کا کریان، ۵، ماہ
راستہ، ۶، ناؤ کا گراہ، رع، کھی، ۸، وفا۔

گھٹا کرتا۔ ۱۱۔ محاورہ، گھٹا کو عبور کرنا۔
گھٹا کرتا۔ ۱۱۔ محاورہ، کھی کرنا۔ دغا کرنا۔ فریب کرنا۔
گھٹا کھڑا کرنا۔ ۱۷۔ محاورہ، بہانہ سازی کرنا، دق،
گھٹا گھٹا کا پانی پینا۔ ۱۱۔ محاورہ، جگہ جگہ پر تجربہ حاصل کرنا، جہل مزیدہ
اور تجربہ کار ہونا۔

گھٹا لگنا۔ ۱۷۔ محاورہ، کشتی کو کتنا سے پر لگنا۔
گھٹا مار۔ ۱۷۔ صفت، جو پتلی اور راہداری کا معمول نہ دے۔
گھٹا مارنا۔ ۱۱۔ صفت، پیل کا معمول نہ دینا۔ اترائی کا معمول

ادا نہ کرنا۔
گھٹا مانجھی۔ ۱۷۔ مذموم طاح جو کشتیوں کے کرائے کا انتظام
کرتا ہے۔

گھٹا وال۔ ۱۰۔ ۱۱۔ صفت، وہ برہمن جو گھاٹوں پر اشنان کرتا اور
ٹھیکا لگاتا ہے۔

گھٹا۔ دگھاتا، ۱۰۔ ۱۱۔ مذموم نقصان۔ خسارہ۔ کمی۔
گھٹا آنا۔ ۱۷۔ محاورہ، نقصان ہونا۔

گھٹا اٹھانا۔ ۱۱۔ محاورہ، خسارہ برداشت کرنا۔
گھٹا بھرنا۔ ۱۱۔ محاورہ، نقصان کی تلافی کرنا۔

گھٹا بڑھانا۔ ۱۱۔ محاورہ، نقصان ہونا۔
گھٹا دیکھنا۔ ۱۷۔ محاورہ، خسارہ کا اندیشہ کرنا۔

گھٹا ہونا۔ ۱۱۔ محاورہ، خسارہ ہونا، نقصان ہونا۔
گھاتی۔ دگھاتی، ۱۰۔ ۱۱۔ صفت، دو پہاڑوں کے درمیان کا راستہ

پہاڑ یا پہاڑیوں کے درمیان خشکی کا قطعہ، ۲، پروانہ۔
راہداری چالان۔

گھٹیا۔ دگھٹا، ۱۰۔ ۱۱۔ صفت، وہ برہمن جو گھاٹوں پر اشنان کرتا ہے۔
گھٹیا ڈال۔

گھٹا۔ دق۔ صفت، بہت بے مصیبت۔
گھٹا۔ ۱۰۔ ۱۱۔ صفت، ۱۔ ۲، چھوس، ۳، چارہ، ۴، دم، ساگ

بات۔ بھڑی۔

بڑنا۔ رفتی گھٹنا۔ ماند بڑنا، ۳، کسی عضو کا پیدائشی ٹریڈھا پیدا ہونا۔
گھٹی۔ دگھتی، ۱۰۔ ۱۱۔ صفت، وہ گائے جو چاند گبن کے وقت پیدا ہو اور اس
کے بدن پر کئی نقص ہو، ۲، گھٹے قدر کی گائے۔

گھوا۔ دگھوا، ۱۰۔ ۱۱۔ مذموم چونا چٹا۔
گھوانہ۔ دگھوانہ، ۱۰۔ ۱۱۔ مذموم جہد۔ چنگوڑا۔ ہندو لالہ بچوں کے سٹائے

یا بھلانے کا جھولارہ، ۲، وہ چار پائی جس پر محراب نما کھڑیاں باندھ کر گھنوں
کا جنازہ سے جاتے ہیں۔

گھواں رنگ۔ دگھواں رنگ، ۱۰۔ ۱۱۔ مذموم گندی رنگ۔
گھے۔ رنگ سے، ۱۰۔ ۱۱۔ صفت، گائے کا بے کھٹت کبھی کبھی۔

گھسرا۔ دگھسرا، ۱۰۔ ۱۱۔ مذموم ایک چھوٹا سا زہر پلا کر پڑا جو مٹی سے رنگ
تعمیر کا ہوتا ہے اور اکثر جنگوں یا گھنڈوں میں پل بنا کر رہتا ہے، ۲، ایک
قسم کا نہایت زہر پلا کر گٹ۔

گ۔ ۵۔ گھ

گھبرا۔ گھاب، ۱۰۔ ۱۱۔ صفت، گھبرا ہوا۔ پریشان۔
گھات۔ ۱۰۔ ۱۱۔ صفت، ۱۔ تاک، ۲۔ داؤں۔ موقع، ۳، فریب، دھوکا

۳، ارادہ۔ مطلب، ۴، کمین، ۵، گاہ۔ وہ جگہ جہاں شکار یا دشمن کے
انتظار میں بیٹھیں، ۶، جاؤ، ۷، لونا۔

گھات پانا۔ ۱۱۔ محاورہ، موقع پانا۔ قابل حاصل کرنا۔
گھات پر آنا۔ گھات پر چڑھنا۔ ۱۱۔ محاورہ، قابل میں آنا۔

چال میں آنا۔
گھات تاکنا۔ ۱۱۔ محاورہ، موقع دھو بڑنا۔

گھات چلانا۔ ۱۷۔ محاورہ، داؤ چلانا، دار کرنا، ۲، جاؤ کرنا۔
گھات چلنا۔ ۱۷۔ محاورہ، چال بازی کا کار کرنا، ہونا۔

گھات شو بھینا۔ ۱۱۔ محاورہ، تدبیر کا ذہن میں آنا۔
گھات کرنا۔ ۱۱۔ محاورہ، خفیہ تدبیر کرنا۔

گھات کھینا۔ ۱۷۔ محاورہ، دوسرے کو غافل پا کر اپنا مطلب نکالنا۔
گھات لگانا۔ ۱۷۔ محاورہ، تاک میں بیٹھنا۔

گھات میں آنا۔ ۱۷۔ محاورہ، دم میں آنا۔ دھوکے میں آنا۔ چال میں
آنا۔ فریب کھانا۔

گھات میں بیٹھنا۔ ۱۷۔ محاورہ، شکار یا دشمن کی تاک میں کسی جگہ چھپ کر
بیٹھنا، ۲، موقع دھو بڑنا۔

گھات میں بھرننا۔ ۱۷۔ محاورہ، تاک میں بھرننا۔ موقع دھو بڑتے بھرننا
داؤں میں رہنا۔

گھات میں رہنا۔ ۱۷۔ محاورہ، تاک میں رہنا۔
گھاتا۔ ۱۰۔ ۱۱۔ صفت، مولی ہوتی چیز پر کوئی چیز سے لینا۔

گھاتک۔ ۱۰۔ ۱۱۔ مذموم خفیہ، قاتل، ۲، جان کا لاگو۔ چھو کا پیاسا۔
گھاتوں میں آنا۔ ۱۷۔ محاورہ، چالوں میں آنا۔ فریب میں آنا

گھب - ۵۶ - صفت نہایت تاریک - صفت اندھیرا -
 گھبلا - گھب - ۵۷ - اندم گڑبڑ - جھگڑا، شور و غل، حساب کی غلطی -
 گھبلاڑنا - ۱۱ - محاورہ اگڑاڑو جانا - حساب میں غلطی پڑنا -
 گھبلاڑنا - ۱۲ - محاورہ اچھکڑاڑنا - اگڑاڑو دینا -
 گھبنا - گھب - ۵۸ - ۵۹ - محاورہ گھبنا جانا -
 گھبنا - گھب - ۶۰ - محاورہ گھبنا جانا -
 گھبنا - گھب - ۶۱ - محاورہ گھبنا جانا -
 گھبنا - گھب - ۶۲ - محاورہ گھبنا جانا -
 گھبنا - گھب - ۶۳ - محاورہ گھبنا جانا -
 گھبنا - گھب - ۶۴ - محاورہ گھبنا جانا -
 گھبنا - گھب - ۶۵ - محاورہ گھبنا جانا -
 گھبنا - گھب - ۶۶ - محاورہ گھبنا جانا -
 گھبنا - گھب - ۶۷ - محاورہ گھبنا جانا -
 گھبنا - گھب - ۶۸ - محاورہ گھبنا جانا -
 گھبنا - گھب - ۶۹ - محاورہ گھبنا جانا -
 گھبنا - گھب - ۷۰ - محاورہ گھبنا جانا -
 گھبنا - گھب - ۷۱ - محاورہ گھبنا جانا -
 گھبنا - گھب - ۷۲ - محاورہ گھبنا جانا -
 گھبنا - گھب - ۷۳ - محاورہ گھبنا جانا -
 گھبنا - گھب - ۷۴ - محاورہ گھبنا جانا -
 گھبنا - گھب - ۷۵ - محاورہ گھبنا جانا -
 گھبنا - گھب - ۷۶ - محاورہ گھبنا جانا -
 گھبنا - گھب - ۷۷ - محاورہ گھبنا جانا -
 گھبنا - گھب - ۷۸ - محاورہ گھبنا جانا -
 گھبنا - گھب - ۷۹ - محاورہ گھبنا جانا -
 گھبنا - گھب - ۸۰ - محاورہ گھبنا جانا -

جانا گھبنا -
 گھٹ - گھٹ - ۸۱ - محاورہ گھٹنا -
 گھٹنا - گھٹ - ۸۲ - محاورہ گھٹنا -
 گھٹنا - گھٹ - ۸۳ - محاورہ گھٹنا -
 گھٹنا - گھٹ - ۸۴ - محاورہ گھٹنا -
 گھٹنا - گھٹ - ۸۵ - محاورہ گھٹنا -
 گھٹنا - گھٹ - ۸۶ - محاورہ گھٹنا -
 گھٹنا - گھٹ - ۸۷ - محاورہ گھٹنا -
 گھٹنا - گھٹ - ۸۸ - محاورہ گھٹنا -
 گھٹنا - گھٹ - ۸۹ - محاورہ گھٹنا -
 گھٹنا - گھٹ - ۹۰ - محاورہ گھٹنا -
 گھٹنا - گھٹ - ۹۱ - محاورہ گھٹنا -
 گھٹنا - گھٹ - ۹۲ - محاورہ گھٹنا -
 گھٹنا - گھٹ - ۹۳ - محاورہ گھٹنا -
 گھٹنا - گھٹ - ۹۴ - محاورہ گھٹنا -
 گھٹنا - گھٹ - ۹۵ - محاورہ گھٹنا -
 گھٹنا - گھٹ - ۹۶ - محاورہ گھٹنا -
 گھٹنا - گھٹ - ۹۷ - محاورہ گھٹنا -
 گھٹنا - گھٹ - ۹۸ - محاورہ گھٹنا -
 گھٹنا - گھٹ - ۹۹ - محاورہ گھٹنا -
 گھٹنا - گھٹ - ۱۰۰ - محاورہ گھٹنا -
 گھٹنا - گھٹ - ۱۰۱ - محاورہ گھٹنا -
 گھٹنا - گھٹ - ۱۰۲ - محاورہ گھٹنا -
 گھٹنا - گھٹ - ۱۰۳ - محاورہ گھٹنا -
 گھٹنا - گھٹ - ۱۰۴ - محاورہ گھٹنا -
 گھٹنا - گھٹ - ۱۰۵ - محاورہ گھٹنا -
 گھٹنا - گھٹ - ۱۰۶ - محاورہ گھٹنا -
 گھٹنا - گھٹ - ۱۰۷ - محاورہ گھٹنا -
 گھٹنا - گھٹ - ۱۰۸ - محاورہ گھٹنا -
 گھٹنا - گھٹ - ۱۰۹ - محاورہ گھٹنا -
 گھٹنا - گھٹ - ۱۱۰ - محاورہ گھٹنا -
 گھٹنا - گھٹ - ۱۱۱ - محاورہ گھٹنا -
 گھٹنا - گھٹ - ۱۱۲ - محاورہ گھٹنا -
 گھٹنا - گھٹ - ۱۱۳ - محاورہ گھٹنا -
 گھٹنا - گھٹ - ۱۱۴ - محاورہ گھٹنا -
 گھٹنا - گھٹ - ۱۱۵ - محاورہ گھٹنا -
 گھٹنا - گھٹ - ۱۱۶ - محاورہ گھٹنا -
 گھٹنا - گھٹ - ۱۱۷ - محاورہ گھٹنا -
 گھٹنا - گھٹ - ۱۱۸ - محاورہ گھٹنا -
 گھٹنا - گھٹ - ۱۱۹ - محاورہ گھٹنا -
 گھٹنا - گھٹ - ۱۲۰ - محاورہ گھٹنا -

گھٹورہ (گھٹ - ۵۶۱ - صفحہ) دغا باز - بے مروت - سنگدل - ہستی سے کام کرنے والی نوکرانی - کام چور -
 گھٹی (گھٹ - ٹی - ۵۶۱ - صفحہ) کسی -
 گھٹی (گھٹ - ٹی - ۵۶۱ - صفحہ) دو جو پیسے کا پیٹ صاف کرنے کے لیے خوش سر دے کر پلاتے ہیں، عادت طبیعت - شخصیت -
 گھٹی میں پڑنا - ۱۱ - محاورہ، عادی ہونا، طبیعت میں داخل ہونا، بچپن میں کسی چیز کا عادی ہونا -
 گھٹی میں پلانا - ۱۱ - محاورہ، گھٹی کی جگہ پلانا، بچپن سے کسی بات کا عادی کرنا -
 گھٹی میں ہونا - ۱۶ - محاورہ، فطرت میں ہونا، بچپن سے کسی بات کا عادی ہونا -
 گھٹیا، گھٹیل - گھٹ، یا، گھٹ، یل، ۱۰ - صفحہ، کم قیمت - معمولی اہل -
 گھٹیا گھٹیل - ۱۲ - اوستے پر کہینہ -
 گھٹیا گھٹ - رگھ - چا - پتھ - ۱ - صفحہ، گوشت کے اندر تمھارے متواتر گھٹنے یا ٹانگوں کی آواز - بچ -
 گھٹ - بچ - بچ - بچ - ۵۱ - صفحہ، کثرت - بچہ بچہ گھٹ، بہت گنجان اور پاس پاس لکھا ہوا -
 گھٹ بچ بولنا - ۱۱ - محاورہ، گھٹ بچ بچ بنا - جلدی جلدی بولنا کہ کچھ سمجھیں نہ آئے -

گھر - ۵۶ - ۱ - صفحہ، مکان - خانہ، ۲ - صفحہ، بستے کی جگہ، مسکن، ۳ - صفحہ، مکان دہن، محل کہیں رہ، چھٹ، کچھ - پل، ۴ - صفحہ، گھوسلا - آشیانہ، ۵ - صفحہ، وطن، دیس، جائے پیدائش، خاندان، گھرانا -
 گھر آباد کرنا - ۱۶ - محاورہ، گھر میں بسنا، ۲ - صفحہ، بیوی لانا، شادی کرنا -
 گھر آباد کرنا - ۱۶ - محاورہ، کسی کے گھر میں جا کر ٹھہرنا -
 گھر کے لئے کو بھی نہیں لکھ لئے - ۱۶ - صفحہ، اپنے گھر پر کسی کی بے عزتی نہیں کرتے، ہر کسی کی خاطر تواضع کی جاتی ہے -
 گھر آئے کی شرم - گھر آئے کی لاج و شرم، ۱۱ - محاورہ، گھر پر آنے کا لحاظ اور پاس -
 گھر آئے ناگ نہ لہجے - باہمی پوچھ جھگڑے، ۱۶ - صفحہ، جو گھر آئی دولت چھوڑ کر دوسری جگہ تلاش کو جانے - یہ مثل اس کی جہالت اور حماقت پر لہجے ہیں -
 گھر آجڑنا - ۱۶ - محاورہ، ۱ - گھر برباد ہونا - خانہ ویرانی ہونا، ۲ - گھر لٹنا، ۳ - صفحہ، بیوی میں نا اتفاقی ہونا، ۴ - خانہ ویران ہونا، ۵ - گھرانا ہونا -
 گھر آف ہو جانا - ۱۱ - محاورہ، خانہ خراب ہو جانا، گھر کا بالکل تباہ ہو جانا، گھر میں کسی نہ رہنا -
 گھر آگڑو آگے چھٹکوانا - ۱۱ - محاورہ، گھر منہدم کرنا -
 گھر بار - گھر خانہ - مکان، ۲ - صفحہ، اسباب خانہ داری، ۳ - صفحہ، بال بچے، ۴ - صفحہ، خاندان، کہنے -

گھر بسا لینا - ۱۶ - محاورہ، شادی کرنا -
 گھر بار بسنا - ۱۶ - محاورہ، شادی ہونا -
 گھر بار تمھارا کوٹھی کھٹھے کو ہاتھ نہ لگانا - ۱۶ - صفحہ، یہ کہاوت ایسے موقع پر کہتی ہے جب بیوی باقیوں سے دل پر جاننا مقصود ہو اور مطلوبہ شے نہ ہونے کا ارادہ ہو -
 گھر بار چھوڑنا - ۱۶ - محاورہ، مکان اور گھر ہستی کے سب تعلقات ترک کرنا، ۲ - صفحہ، دیس چھوڑنا -
 گھر بار خالصے لگ جانا - ۱۶ - محاورہ، گھر ضبط ہو جانا، گھر تباہ ہو جانا -
 گھر بار کا دھندلا - ۱۶ - صفحہ، خانہ داری کا کام -
 گھر بار لٹانا - ۱۱ - محاورہ، گھر تباہ کر دینا -
 گھر بارو - ۱ - صفحہ، وہ شخص جو گھر اور عیال و اطفال رکھتا ہو، جو عادی قابل اعتبار -
 گھر بار ہونا - ۱۱ - محاورہ، اہل و عیال ہونا -
 گھر باری - ۱۶ - صفحہ، عیالدار - بال بچوں دار، ۲ - صفحہ، گھر ہستی -
 گھر برباد کرنا - ۱۶ - محاورہ، کسی کی دولت کو فضیل ختم کر دینا -
 گھر برباد ہونا - ۱۶ - محاورہ، گھر تباہ ہونا، خانہ خراب ہونا، ۲ - صفحہ، شوہر یا بیوی کا جانا، ۳ - صفحہ، کسی سر پرست اور بزرگ کا سر سے اٹھ جانا -
 گھر بسا - وہ شخص جو بروقت گھر میں بیٹھتا ہے، ۲ - صفحہ، قابل -
 گھر بسنا - گھر آباد ہونا - ۱۶ - محاورہ، شادی ہونا، ۳ - صفحہ، گھر کا ختم ہونا -
 گھر بسا - ۱۶ - صفحہ، بیوی - زوجہ - جوہر -
 گھر لگا کرنا - ۱۱ - محاورہ، گھر تباہ کرنا، ۲ - صفحہ، بیوی میں نا اتفاقی کرنا -
 گھر لگنا - ۲ - صفحہ، لگانا -
 گھر بچکڑنا - ۲ - صفحہ، بیوی میں نا اتفاقی ہونا، ۲ - صفحہ، کامر جانا -
 گھر پتالینا - ۱۱ - محاورہ، مکان تعمیر کر لینا، ۲ - صفحہ، رسائی حاصل کرنا -
 گھر پھانا - ۱۱ - محاورہ، مکان بنانا - مکان کی تعمیر کرنا، ۲ - صفحہ، پاؤں جمانا، ۱ - صفحہ، اطمینان سے بیٹھنا، ۳ - صفحہ، گھر بھرنانا، ۴ - صفحہ، گھر سنوارنا، ۵ - صفحہ، گھر کا انتظام کرنا، ۶ - صفحہ، شادی کرنا، گھر آباد کرنا -
 گھر بند کرنا - ۱۶ - محاورہ، شطرنج کی چال میں بادشاہ یا کسی اور مہرے کو کسی خانے میں جمانے سے روکنا، جو مہر کی بازی میں کوٹ کا گھر بند کرنا -
 گھر بند ہو جانا - ۱۶ - محاورہ، شطرنج یا جو مہر میں کسی مہرے کا کسی خانہ میں نہ جاسکا، ۲ - صفحہ، گھر کو قفل لگانا، ۳ - صفحہ، گھر کا کوئی والی وارث نہ رہنا، ۴ - صفحہ، بیوی کا مرنانا -
 گھر بندی - ۱۱ - صفحہ، وہ نوٹھی جو خانہ زاد ہو -
 گھر بول اٹھنا - ۱۱ - محاورہ، رونق آ جانا، ۲ - صفحہ، گھر کے آثار سے ظاہر ہونا -
 گھر لولٹنا - ۱۱ - صفحہ، ٹیکل کا پکنا، خوش الحان پرندہ کا چھوٹنا -
 گھر بھائیں بھائیں کرتا ہے - ۱۶ - محاورہ، گھر سے ڈر لگتا ہے، گھر سنان ہے -
 گھر بھر - ۱۱ - صفحہ، بوجھ، گھر کے سب لوگ -

گھر بھر سے باہر بھڑے۔ دو عالمیہ فقروہ اس قدر دولت ہو کر گھر میں رکھنے کی جگہ نہ ملے۔

گھر بھرتا۔ ۱۶۔ محاورہ ۱۔ مکان کو اسباب یا شے سے پُر کرنا، دولت گھسیٹنا، ۳۔ گھانا پورا کرنا، ۲۔ گول کو مکان میں جمع کرنا۔

گھر بے گھر۔ ۱۱۔ تابع فعل ۱۔ گھر گھر خانہ برباد۔

گھر بے گھٹنا۔ ۱۱۔ محاورہ ۱۔ سہانی اختیار کرنا، ۲۔ بیکار ہونا، ۳۔ کام کا چھوڑنا، ۴۔ طاقت سے دست بردار ہونا، ۵۔ مکان کا گرجانا، ۶۔ مسما ہونا۔

گھر بیٹھے۔ ۱۶۔ تابع فعل ۱۔ بے سعی و کوشش۔ بلا ترو۔ خانہ نشینی کی حالت میں۔

گھر بیٹھے بہر و پڑانا۔ ۱۱۔ محاورہ ۱۔ سحر و جادو کے دور سے کسی کو اپنے گھر بلوانا، ۲۔ چور کسی کو گھر بلوانا۔

گھر بیٹھے پانا۔ ۱۱۔ محاورہ ۱۔ بے عزت و شقت حاصل کرنا۔

گھر بیٹھی روٹی۔ ۱۱۔ منٹ، بلا محنت و شقت کیے آمدنی، گھر سے باہر کئے جانے کے پیر کا پیٹن، وظیفہ کرایہ

گھر بیٹھے کی تنخواہ۔ ۱۶۔ منٹ، وہ تنخواہ جو بے عزت و شقت ملے۔

گھر بیٹھے مول لینا۔ ۱۱۔ محاورہ ۱۔ بازار چھانڈ کر گھر کے دروازہ پر سودا خرید لینا، ۲۔ خواہ خواہ اپنے سر مزدواری لینا۔

گھر بے حیران ہونا۔ ۱۶۔ محاورہ ۱۔ دلی وارث کے مر جانے سے گھر کا دیران ہونا۔

گھر بگگائی۔ ۱۶۔ منٹ ۱۔ بے عزت و شقت کے کام ہو جانا۔

گھر بڑا رہنا۔ ۱۶۔ محاورہ ۱۔ گھر سے باہر نہ جانا، ۲۔ کسی سے گھر بہر وقت رہنا۔

گھر بڑھانا۔ ۱۱۔ محاورہ ۱۔ عورت کا کسی مرد کے نکاح میں آنا

گھر بھونڈنا۔ ۱۱۔ محاورہ ۱۔ کسی جگہ بھڑھانا۔ تمام کرنا۔

گھر کو تباہ کرنا۔ گھر کی ضروری چیزیں لٹی کرنا، ۲۔ اپنا نقصان پورا کرنا۔

گھر چھانڈنا۔ ۱۶۔ محاورہ ۱۔ چوری چھپے بیکاری کے لیے کسی کے گھر جانا، چور کا دیوار چھانڈ کر اندر آنا۔

گھر چھوٹے گنوار لوٹے۔ ۱۶۔ منٹ ۱۔ گھر میں نا اتفاقی ہو تو دوسرے فائدہ اٹھانے ہیں۔

گھر چھوڑنا۔ ۱۶۔ محاورہ ۱۔ نفع لگانا، چوری کرنا۔

گھر چھوڑنا۔ ۱۶۔ محاورہ ۱۔ محاورہ ۱۔ دولت برباد کر کے خوش ہونا، ۲۔ فضول خرچی سے خوش ہونا، ۳۔ نقصان، شاک و تجربہ حاصل کرنا، ۴۔ طاقت اور بے وقوفی سے کام لینا۔

گھر تاننا۔ ۱۱۔ محاورہ ۱۔ نقب لگانے کے لیے کوئی گھر تلاش کرنا، ۲۔ گھر ڈھونڈنا۔

گھر تہنا۔ ۱۶۔ محاورہ ۱۔ گھر چھوڑ دینا۔ تارک الدنیا ہونا۔

گھر تک پہنچانا۔ ۱۶۔ محاورہ ۱۔ کسی کو گھر تک چھوڑنا، ۲۔ انجام تک پہنچانا۔ پورا پورا حاصل کرنا۔ کوئی محنت باقی نہ رہنا۔

گھر تک پہنچنا۔ ۱۶۔ محاورہ ۱۔ کسی کے مکان تک جانا، ۲۔ مال بہن کی گالی دینا۔

گھر تنگ بہو جبر جنگ۔ ۱۶۔ منٹ ۱۔ اپنی بساط سے بڑھ کر کام کرنے کی موخہ پر پوتے ہیں۔

گھر جاتا رہنا۔ ۱۶۔ محاورہ ۱۔ خاندان سے تعلق منقطع ہونا، طلاق میں آنا، خاندان کا رہنا۔ گھر چھوڑ جانا۔

گھر جانا۔ ۱۶۔ محاورہ ۱۔ اپنے مکان کو جانا، ۲۔ گھر بڑھانا، ۳۔ خاندان سے چھوڑنا، ۴۔ دوستی چھوڑنا۔

گھر جانی من مانی۔ ۱۶۔ منٹ ۱۔ اپنی خواہش کے مطابق ہر کام کرنا۔

گھر جانے کا راستہ نہ ملنا۔ ۱۱۔ محاورہ ۱۔ گھر جانا۔

گھر جانے کسی کا تاپے کوئی۔ ۱۶۔ منٹ ۱۔ نقصان کسی کا ہونا، ۲۔ کوئی اور ہی اٹھانے۔

گھر جنوائی۔ ۱۶۔ منٹ ۱۔ داماد جو سسرال میں آباد ہو جائے۔

گھر جنوائی رکھنا۔ ۱۶۔ محاورہ ۱۔ بیٹی کو بیاہ کر داماد سمیت اپنے گھر رکھنا۔

گھر جوت۔ ۱۶۔ منٹ ۱۔ اپنی کھیتی گھر کی کھیتی، ذاتی زراعت۔

گھر جھانکنا۔ ۱۱۔ محاورہ ۱۔ چھوٹی دیر کے لیے گھر میں قدم رکھنا۔

گھر جھینسی۔ ۱۶۔ منٹ، وہ عورت جو دوسرے گھروں میں ماری ماری ہے۔

گھر نہ ہے گھر دوزخ ہے۔ ۱۶۔ منٹ ۱۔ گھر مصیبت اور لڑائی بھڑائی کی وجہ سے رہنے کے قابل نہیں۔

گھر چٹھہ کر پڑنے کو آنا۔ ۱۱۔ محاورہ ۱۔ کسی کے مکان پر آکر لڑنا۔

گھر چلانا۔ ۱۱۔ محاورہ ۱۔ گھر کا خرچ اٹھانا۔ گھر کا انتظام سنبھالنا۔

گھر چلانا۔ ۱۱۔ محاورہ ۱۔ گھر کا انتظام چلانا۔ گھر کا خرچ اٹھانا۔

گھر چھوڑنا سمہ صیانہ بڑا۔ ۱۶۔ منٹ ۱۔ حیثیت کم شہرہ زیادہ۔

گھر چھوڑنا خیلہ قائم۔ ۱۶۔ منٹ ۱۔ گھر چھوڑ کر جو بیڑا اختیار کرنا۔ فائدہ چھوڑ کر نقصان کی طرف دوڑنا۔

گھر چہن تو باہر چہن۔ ۱۶۔ منٹ ۱۔ گھر میں آرام ملے دل خوش ہو تو باہر بھی بہرہ رنجی معلوم ہوتی ہے۔

گھر خاک سیاہ کرنا۔ ۱۶۔ منٹ ۱۔ گھر تباہ کر دینا۔

گھر خاک میں ملانا۔ ۱۶۔ محاورہ ۱۔ گھر تباہ کرنا۔

گھر خالی کرنا۔ ۱۶۔ محاورہ ۱۔ گھر سے اسباب وغیرہ نکال لینا۔

گھر خالی ہونا۔ ۱۶۔ محاورہ ۱۔ مکان کا غیر آباد ہونا۔

گھر دار۔ ۱۶۔ منٹ ۱۔ نصف، گھر والا، دنیادار، بال بچے والا، گھبر والا۔

گھر داری۔ ۱۶۔ منٹ ۱۔ خانہ داری، گھر ہستی۔

گھر داماد۔ ۱۶۔ منٹ ۱۔ دیکھنے گھر جنوائی۔

گھر دار۔ ۱۶۔ منٹ ۱۔ شوہر، شوہر کا گھر۔

گھر دکھانا۔ مکان کی شناخت کر دانا۔

گھر دوازی۔ معمول جو بھر گھر سے دھول کیا جائے۔

گھر دوار۔ ۱۶۔ منٹ ۱۔ گھر بار۔

گھر دوڑ بھڑٹا بھاری۔ ۱۶۔ منٹ ۱۔ گھر دوسرے اور بوجھ بھاری ہے۔

یعنی سخت مصیبت ہے۔

گھر دیکھ رکھنا۔ ۱۶۔ محاورہ ۱۔ گھر تاک رکھنا۔

گھر دیکھ لینا۔ ۱۱۔ محاورہ کسی کے گھر بار بار جانا، مکان دیکھ لینا۔ گھر سے واقف ہونا۔ مانوس ہو جانا۔

گھر ڈوبنا۔ ۱۱۔ محاورہ گھر برباد کرنا۔ گھر بھانسا، ۲۔ ٹانڈان کو بدنام کرنا۔

گھر ڈھانا۔ ۱۱۔ محاورہ گھر منہدم کرنا۔

گھر سبیل۔ ۱۶۔ مثل وہ سرکاری روپیہ جو زمینداروں کو گھرنائے کے لیے تقاعدی کے طور پر دیا جاتا ہے۔

گھر سجانا۔ ۱۱۔ محض مرگب (مکان) کو راستہ کرنا۔

گھر سرسراٹھانا۔ بہت خود دخل بچانا، ۲۰۔ گھر کا انتظام یا خرچ اپنے سر پر لینا۔

گھر گھر تو باہر چلیں۔ ۱۱۔ مثل گھر میں راحت ہے تو باہر بھی آرام ملتا ہے۔

گھر گھونٹنا ہو جانا۔ ۱۱۔ تابع نفل (مکان) سے بہت سے آدمیوں کا نکل جانا۔

گھر سے۔ ۱۱۔ تابع نفل (مکان) سے (۲، گرہ سے پہلے سے ۳) اندرون خانہ سے مراد بوسہ گھروالی۔

گھر سے باہر پاؤں (قدم) نکالنا۔ ۱۱۔ محاورہ ا حد سے بڑھ کر کام کرنا۔

گھر سے باہر کرنا۔ ۱۱۔ محاورہ گھر سے نکال دینا۔ گھر میں نہ رکھنا۔

گھر سے گھر کرنا۔ ۱۱۔ محاورہ گھر سے باہر نکال دینا۔

گھر سے پاؤں نکالنا۔ ۱۱۔ محاورہ ۲ باہر پھرنے کی عادت ڈالنا، ۲۔ حد سے باہر جانے لگنا۔

گھر سے دینا۔ ۱۱۔ محاورہ ۲ پتے سے دینا۔ گرہ سے دینا۔ اپنے پاس سے دینا۔ نقصان اٹھانا۔

گھر سے کافر ہو۔ ۱۱۔ مثل گھر سے نکلو۔

گھر سے گھونٹنا۔ ۱۱۔ محاورہ گرہ سے خرچ کرنا۔ ضائع کرنا۔ (۲) نقصان اٹھانا۔

گھر سے لڑ کر تو نہیں چلے۔ ۱۱۔ مثل یہ مثل کسی کے ساتھ خواہ مخواہ ہونے کے وقت ہوتے ہیں۔

گھر سے مرنے دم نکلتا۔ ۱۱۔ محاورہ زندگی بھر گھر میں رہنا۔

گھر سینا۔ ۱۱۔ محاورہ ہر وقت گھر میں پڑے رہنا۔ گھر سے باہر نہ نکلتا، ۲۔ بیکار اور بیکار رہنا سست ہو جانا۔

گھر صاف رکھ دینا، کرنا۔ ۱۱۔ محاورہ (۱) چھاڑو سے گھر کی صفائی کرنا، ۲۔ گھر کے رہنے والوں میں سے کسی کو زندہ چھوڑنا۔

گھر عید تو باہر عید۔ ۱۱۔ مثل گھر میں آرام ہو تو باہر بھی دل خوش رہتا ہے۔

گھر کا۔ ۱۱۔ نصف گھر ہو۔ گھر سے متعلق (۲)۔ انا، قرآنی (۳)۔ رشتہ دار (۴)۔ قریبی جو ہمیشہ خدمت کرتا ہو۔ جیسے گھر کا نانی، گھر کا دھونی وغیرہ۔

گھر کا آدمی۔ ۱۱۔ مذم رشتہ دار۔ جیانی بند (۲)۔ ذاتی ملازم۔ بیخ کا غلام (۳)۔ واقف کار۔ جان بچانے والا (۴)۔ بندہ۔ ملک (۵)۔ جو رو۔ خاوند۔

گھر کا آئین ہو جانا (ہونا)۔ ۱۱۔ محاورہ گھر تباہ ہو جانا۔ خانہ ویرانی ہونا۔

گھر کا اٹھا کون لگایا کرے۔ ۱۱۔ مثل اپنی گرہ سے کون خرچ کرنے

گھر کا اجالا۔ ۱۱۔ مذم نہایت عزیز (۲)۔ بیٹا۔

گھر کا باغن۔ ۱۱۔ مذم بڑا بہت۔ برہمن۔ گرو۔

گھر کا باوا آدمی نرالا ہے۔ ۱۱۔ مثل اس گھر کی بہنات لکھی ہے۔

گھر کا بوجھ اٹھانا۔ (سنجھنا)۔ ۱۱۔ محاورہ گھر کا انتظام کرنا۔ گھر کے خرچ کا نیکل ہونا۔

گھر کا بوجھ بڑھنا۔ گھر کے انتظام اور اخراجات کا بوجھ اپنے سر ہونا۔ امور خانہ داری میں مبتلا ہونا۔

گھر کا بھارتا۔ ۱۱۔ مذم مکان کا کرایہ۔

گھر کا بھرا۔ ۱۱۔ نصف (۲) خاندانی میر۔

گھر کا بھولا۔ ۱۱۔ نصف (۲) گھر میں سب سے زیادہ بے وقوف رسیدھا سادا۔ ہوران احمق۔

گھر کا بھیدی۔ ۱۱۔ مذم وہ شخص جو گھر کے کل ماز جانتا ہو۔ امور خانگی سے آگاہ (۲)۔ مازدان۔ محرم بہمد۔

گھر کا بھیدی لنگھا دھائے۔ ۱۱۔ مثل رازدار کی دشمنی سخت خطرناک ہوتی ہے۔

گھر کا جوگی جوگنا، آن گاؤں کا سدھ۔ ۱۱۔ مثل اپنے وطن میں قدر نہیں ہوتی۔

گھر کاٹ کھانے رکاٹنے، کو دوڑتا ہے۔ ۱۱۔ مثل گھر میں جی گھرتا ہے گھر میں رہنا خوش نہیں آتا۔ گھر نہایت بھیانک اور ویران معلوم ہوتا ہے۔

گھر کا چراغ۔ ۱۱۔ نصف گھر کا اجالا۔ گھر کا لڑ۔ اولاد عزیز۔

گھر کا حساب۔ ۱۱۔ مذم ذاتی حساب کتاب۔ خانگی لین دین (۲)۔ اپنی ہی سمجھ کا حساب۔

گھر کا خرچ۔ ۱۱۔ مذم اخراجات خانگی۔

گھر کا دھندا۔ ۱۱۔ مذم گھر کے کام کاج۔ امور خانگی۔

گھر کا راستہ۔ ۱۱۔ مذم وہ راستہ جو اپنے مکان کی طرف جائے (۲)۔ نہایت آسان اور سہل کام۔

گھر کا راستہ تانا۔ ۱۱۔ محاورہ امانت رکھت کرنا۔

گھر کا راستہ بھول جانا۔ ۱۱۔ محاورہ کسی بگڑے ایسا ہی گناہ گھر جانے کہنیال نہ آنے۔ (۲)۔ ایسا بھروسہ ہو جانا کہ گھر کا راستہ بھی بھول جائے۔

گھر کا راستہ سمجھنا۔ ۱۱۔ محاورہ کسی کام کو نہایت آسان اور سہل جاننا۔

گھر کا راستہ لو۔ ۱۱۔ محاورہ (۲) سدھارو۔ پلو۔ پلو۔ رخصت ہو جاؤ۔ چلتے پھرتے نظر آؤ۔

گھر کا راستہ لینا۔ ۱۱۔ محاورہ گھر کو سدھارو۔ کسی بگڑے سے واپس آنا۔

گھر کا کام (کاج)۔ ۱۱۔ مذم گھر کا دھندا۔

گھر کا گھر۔ ۱۱۔ مذم کتبہ بھر گھر کے تمام لگ۔ گھر بھر۔ سارا گھر (۲)۔ گھر کا تمام مال و اسباب۔

گھر کا گھر وا کر دینا۔ دیکھتے گھر کا گھر وا ہو جانا۔

گھر کا گھر وا ہو جانا۔ گھر کا تباہ و برباد ہو جانا (۲)۔ بڑے گھر کا چھوٹا گھر رہ جانا۔

گھر کا مال - ۱۶۔ مذ (دولت خانہ ۲، ذاتی روپیہ - ذاتی دولت ۳، سامان خانہ - گھر کا مالک - ۱۷۔ مذ (گھر والا - مالک مکان ۲، شوہر - گھر کا مرد - ۱۷۔ مذ (شوہر ۲، خاندان یا کنبہ قبیلہ کا مرد ۳، وہ مرد جو اپنے گھر میں خیر اور باہر بھیرے ہو - گھر کا نام آجھانا (روٹونا، ۱۷۔ محاورہ) گھر کا نام بدنام کرنا - خاندانی عزت برادار کرنا خاندان کو بیٹ لگانا - گھر کا نہ نکھٹا کا - ۱۷۔ صفت (کہیں کا نہیں - بالکل ناکارہ - گھر کا ہوا نہ درکا - ۱۷۔ صفت (کہیں کا نہ رہا نہ کیا ہو گیا - گھر کتنی کا - ۱۷۔ صفت (گھر کے کتے بونے ٹوت کا ۲، گھر کا بنا ہوا سوت - ۳، صفت (صفت برابر - گھر کو استر بلا سرو دھو - ۱۷۔ مثل (خانداری ستر بلاؤں کے قبول کرنے کے برابر ہے - گھر کرنا - گھر کرنا - رسائی کرنا - گھنٹاش کرنا - ۲، گھر سا کر رہنا - گھر آباد کرنا - ۳، خاندان سے تباہ کرنا ۴، بیٹھنا گھسنا ۵، قبضہ کرنا - تصرف کرنا ۶، گھر بنانا - رہنا - بنانا ۷، گھونٹنا بنانا ۸، چھید کرنا - سوراخ کرنا ۹، گھر کے کام کا حق میں نہایت کفایت شعاری کرنا ۱۰، بیاہ کرنا یا ہم عقد کرنا ۱۱، قیام کرنا جمننا ۱۲، اثر کرنا - سرمایت کرنا ۱۳، سمانی کرنا - گھنٹاش کرنا - گھر کھالینا - ۱۶۔ محاورہ) کسی کا گھر لوٹنا رستیاں کر دینا - گھر کھائے جا تا ہے - گھر کھانے کو دوڑتا ہے - ۱۷۔ محاورہ) رہتی گھر آتا ہے - گھر کھوج مٹا - ۱۷۔ صفت (خانہ دیران خانہ خراب - گھر کھوج مٹی - ۱۷۔ صفت (وہ عورت جس کے گھر کا تباہی اور بربادی میں نام و نشان تک مٹ گیا ہو - خانان برباد - گھر کھوج مٹے (بددعا) گھر برباد ہو جائے تباہ ہو جائے - گھر کھو کر میدان کر دینا - ۱۷۔ محاورہ) گھر کو منہدم کر دینا - گھر کھو کر تماشا دیکھنا - ۱۷۔ محاورہ) گھر کی دولت ضائع کر کے پیش کرنا - گھر کھونا - ۱۷۔ محاورہ) گھر برباد کرنا - گھر اچاڑنا ۲، خاندان سے بگاڑ کرنا - گھر کی - ۱۷۔ صفت (۱، خانہ ساز - خانگی ۲، ذاتی - اپنی - سخی ۳، آپس کی - گھر کی ادھی نہ باہر کی ساری - ۱۷۔ مثل) گھر کی کم آمدنی باہر کی زیادہ آمدنی سے بہتر ہے - وطن کی ادھی روٹی پردیس کی ساری سے اچھی ہے - گھر کی بات - ۱۷۔ مثل (گھر کا مجید ۲، آپس کی بات آپس کا معاملہ ۳، اپنے ہاتھ کا کام نہایت سہل اور آسان کام - گھر کی بیوی ہانڈنی گھر کتوں جو کا - ۱۷۔ مثل) جب گھر کی بیوی ادھر ادھر بھرتگی تو گھر میں کتے لوش گئے - گھر کی بیوی باسی ساگ - ۱۷۔ مثل) بے جا شیخی گھکارنا - گھر میں

مٹی کے برتن اور باسی ساگ کے سوا کچھ بھی نہیں - مگر باہر شیخی گھکاری جاتی ہے - گھر کی پوچی - ۱۱۔ مثل (گھر کا سرمایہ - گھر کا مال و متاع - گھر کی جلی بن میں کٹی بن میں لگی آگ - ۱۱۔ مثل) بد نصیب کا بن بجا رہ گیا کرے جو ہیں ہمارے بھلاگ (کہیں ٹھکانہ نہیں جہاں جائے گا نصیب ہی اٹھائے گا - گھر کی چور روٹی جو کسی کہاں تک - ۱۱۔ مثل) اپنے ہی گھر میں رہنے والے شخص کی تنگبانی کرنی بڑی مشکل ہے - گھر کی سوچھا گھر ولے سے - ۱۷۔ مثل) مکان کی رونق صاحب خاندان سے بنتی ہے - گھر کی طرح بیٹھنا - ۱۷۔ محاورہ) آلام سے بیٹھنا فرغت سے بیٹھنا چین سے بیٹھنا - بلا تکلف بیٹھنا - گھر کی طرح رہنا - ۱۷۔ محاورہ) بے تکلفی سے بسر کرنا - اپنا گھر سمجھ کر نہ ہنل - گھر کی کھانڈ کر کری جو جری کا گڑ مٹھا - ۱۱۔ مثل) حلال کی کمانی کی قدر نہیں - البتہ ناچار کمانی زیادہ بند آتی ہے - گھر کی کھیتی - ۱۱۔ مثل) بچ کی کھیتی - اپنی کھیتی ۲، موروثی مال - گھر کی نوٹھی - ۱۷۔ مثل) گھر کی نیز ۲، بے حد مطیع بہت اطاعت گزار - گھر کی مرغی وال برابر - ۱۱۔ مثل) گھر کی اچھی چیز کی بھی قدر نہیں ہوتی گھر کے پاس نہ پھٹکنا - ۱۷۔ محاورہ) گھر کی طرف مطلق رخ نہ کرنا - گھر نہ جانا - گھر کے پیروں کو تیل کا طیلدہ - ۱۱۔ مثل) گھر والوں کے تدری اور غیر ولی کی خاطر ملاقات - گھر کے جالے لیتے پھرتا - ۱۷۔ محاورہ) گھر کے کونے کونے کو جاکتے اور ٹولتے پھرتا ۲، بے فائدہ کام کرنا - گھر کے گھر - ۱۱۔ مذ (گھر ہی میں - گھر کے اندر ۲، برابر - نفع میں نہ نقصان میں ۳، بہت سے گھر بہت سے خاندان - گھر کے گھر بند ہو گئے - ۱۷۔ محاورہ) سرف سے گھر تباہ ہو گئے ۲، بستیاں دیران ہو گئیں - گھر کے گھر بیٹھ گئے - ۱۷۔ محاورہ) بارش کی کثرت سے بہت سے مکانات گر پڑے - گھر کے گھر رہنا - ۱۷۔ محاورہ) نفع ہونا نہ نقصان - برابر برابر رہنا - گھر کے گھر صاف ہو جانا - ۱۷۔ محاورہ) بہت سے خاندانوں کا تباہ ہو جانا - گھر کے گھر میں - ۱۷۔ تابع فعل (باہمی طور پر - آپس میں - گھر کے لوگ رادھی - ۱۷۔ مذ) بال بچے - سارا لٹھ - گھر کے ہوئے نہ در کے - ۱۱۔ مثل) نہ گھر کے قابل رہے نہ باہر کے کہیں کے نہ رہے - گھر گر مسرت - ۱۷۔ مثل) گھر کا نظام ۲، گھر سے متعلق -

بیاہ ہوتے ہی سارا بائیکین نکل جاتا ہے۔ بیوی آتے ہی گھر باریک فکر ہو جاتی ہے۔

گھر میں بھونٹی بھانگ نہیں ہے اور باہر نیوتے سات۔ ۱۱۔ نیشل منفس و خاش ہوتے ہوئے بھی بڑی شہی بگھاتے ہیں۔

گھر کی بی بی بکھو اوتار۔ باہر میاں تھا نیدار۔ ۱۱۔ نیشل گھر میں بی بی فلی بن کر نہیں۔ اور باہر میاں حکومت جتا کر نہیں۔ ۲۰۔ گھر میں عزت اور میاں شہی خورے۔

گھر میں بیٹھ رہنا۔ ۱۱۔ محاورہ ۱۔ گوشہ نشینی ہو جانا۔

گھر میں بیٹھنے شکار کرنا رکھینا۔ ۱۱۔ محاورہ ۱۔ گھر بیٹھے مال مارنا گھسے اندر ہی لوگوں کو ٹھکانا۔ ۲۰۔ گھر کے اندر مڑے اڑانا۔

گھر میں بڑنا۔ ۱۱۔ محاورہ ۲۔ بیوی بنتا۔ کسی بیسوا کا پیشہ ترک کر کے نکاح میں آنا۔

گھر میں جو رو کا نام بہو بگھر رکھ لینے سے کیا ہوتا ہے۔ ۱۱۔ نیشل اپنی عزت لینے مند سے نہیں ہوا کرتی۔

گھر میں جو شہد ہے تو کاسے کو بن جائیں۔ ۱۱۔ نیشل اگر بغیر قنوت و شفقت کے روزی مل جائے تو روز دھوپ کی کیہ ضرورت ہے۔

گھر میں جو ہے لوتے ہیں۔ گھر میں جو ہے قلا بازیاں کھاتے ہیں۔ ۱۱۔ نیشل اس قدر منفس ہیں کہ گھر کے جو ہے تک بھوک کے ماسے لوثیاں لے رہے ہیں۔

گھر میں خاک اڑنا۔ ۱۱۔ محاورہ ۲۔ نہایت غزبی اور منفسی ہونا۔

گھر میں دوا، ہائے ہم مڑے۔ ۱۱۔ نیشل اس سے وقف آدمی کے متعلق کہا جاتا ہے جس کے پاس ضرورت کی چیز موجود ہو۔ مگر وہ اس کا استعمال نہ جانتا ہو۔

گھر میں دھان نہ پان، بیٹی کو بڑا گمان۔ ۱۱۔ نیشل منفس میں غرور کرنا اور بی بی بھارنا۔

گھر میں دیکھو چھلنی نہ جھاج، باہر میاں تیر انداز۔ ۱۱۔ نیشل غریب شہی غرور کے متعلق کہتے ہیں۔

گھر میں ڈالنا کسی یا بیسوا کے ساتھ نکاح کر کے اُسے بیوی بنا لینا۔ گھر میں داخل کرنا۔

گھر میں سوت نہ کیا س جولہ سے لٹھ لٹھا۔ ۱۱۔ نیشل دیکھو سوت نہ کیا س۔

گھر میں شیر باہر بکھیر۔ ۱۱۔ نیشل گھر والوں پر بے جا حکومت کرنا اور باہر والوں سے ڈرنا۔

گھر میں کھانے کو نہیں اٹاری پر دھواں۔ ۱۱۔ نیشل شہی باز کے متعلق کہتے ہیں۔

گھر میں گھر لڑائی کا ڈر۔ ۱۱۔ نیشل ایک گھر میں دوسرا گھر بنا دیا جائے تو ہمیشہ جھگڑا رہتا ہے۔

گھر میں نہ سکانا۔ ۱۱۔ محاورہ ۲۔ گھر میں نہ آسکنا۔ مکان کی گنجائش سے زیادہ ہونا۔

گھر میں نہیں تاگا۔ ایسا مالکے پاگا۔ گھر میں نہیں دلنے بی بی چلی بھانسنے

گھر گھر سستی۔ ۱۱۔ منٹا گھر کا انتظام۔ ۲۰۔ گھر میں رہنے والی شہی عزت۔

گھر گھاٹ۔ ۱۱۔ منڈ جال ڈھال بنگ ڈھنگ۔ طور طریق، خوبصورت عادت طبیعت، نشان۔ پتہ۔ مقام ٹھکانہ۔

گھر گھاٹ معلوم ہونا۔ ۱۱۔ محاورہ ۲۔ عام باتوں کی واقفیت اور آگاہی ہونا طور طریق معلوم ہونا سارے بھید جاننا۔

گھر گھانا۔ ۱۱۔ محاورہ ۲۔ گھر برباد کرنا۔ ٹوٹنا فریب سے مال مارنا، عاشق بنانا۔ ۳۰۔ موہنا، فریفتہ کرنا۔

گھر گھر۔ ۱۱۔ تابع فعل، خانہ بچنا۔ ہر گھر میں۔ ہر مکان میں۔ سب جگہ، سب کے گھروں میں۔ ہر کس و ناکس کے گھر میں۔

گھر گھرنا۔ ۱۱۔ محاورہ ۲۔ مارا مارا بھڑنا۔

گھر گھرنا۔ ۱۱۔ محاورہ ۲۔ ہر گھر میں چانا۔

گھر گھرنا۔ ۱۱۔ محاورہ ۲۔ ہر گھر میں خوشی ہونا۔ عام خوشی ہونا۔

گھر گھر عید ہے۔ ۱۱۔ محاورہ ۲۔ عام خوشی ہے۔ سب خوش و فرم ہیں۔

گھر گھر کے جالے لینا۔ ۱۱۔ محاورہ ۲۔ ہر ایک کو ٹھولتے پھرنا۔

گھر گھر پھرنا۔

گھر گھر کے مزے پکھنا۔ ۱۱۔ محاورہ ۲۔ ایک گھر میں نہ رہنا۔ ملازم یا ڈاکر کا ایک بگڑے پھرنا۔ کنایتاً تجربہ کار ہونا۔

گھر گھر لے پھرنا۔ ۱۱۔ محاورہ ۲۔ ہر جگہ لے پھرنا۔ زبرداری لے پھرنا۔

گھر گھر ملتے پھرنا۔ ۱۱۔ محاورہ ۲۔ ہر گھر سوال کرتے پھرنا، ۲۰۔ قرض لیتے پھرنا۔

گھر گھر مٹیا لے جو ہے ہیں۔ ۱۱۔ نیشل سب ایک جیسے ہیں کوئی آسودہ اور فارغ البال نہیں۔ سب ایک حال میں ہیں۔

گھر گھر مٹو۔ گھر گھسنا۔ ۱۱۔ صفت وہ مرد جو ہر وقت نشان خانہ میں بیٹھا رہے۔ غور توکل میں بیٹھنے والا شخص۔

گھر گھر پڑا، شہس میں مومل۔ ۱۱۔ نیشل اے دکھائے کسی بیز کی تعریف کرنا، ۲۰۔ فضول اور بے فائدہ کام۔ جو چیز یا س نہ ہو اس کی قیمت چکانا۔

گھر گھی۔ ۱۱۔ صفت ہانڈ خراب۔ بڑا۔ بڑا۔

گھر گیا۔ ۱۔ صفت بگڑا، گھر اڑنا۔ خانہ خراب۔

گھر لٹانا۔ ۱۱۔ محاورہ ۲۔ بے جا داد و پیش کرنا، بہت فضول خرچی کرنا۔

گھر لٹ جانا۔ ۱۱۔ محاورہ ۲۔ مکان میں چوری ہونا، ۲۰۔ کسی موت سے گھر کا تباہ ہونا۔

گھر لینا۔ ۱۱۔ محاورہ ۲۔ مکان مول لینا، ۲۰۔ گھر لے لینا۔

گھر ملتا ہے لوہر نہیں ملتا، بڑ ملتا ہے تو گھر نہیں ملتا۔ ۱۱۔ نیشل بھڑیوں کو اچھا رشتہ نہ ختے پر کہا جاتا ہے۔

گھر مٹو۔ ۱۱۔ محاورہ ۲۔ گھر میں چوری کرنا۔ گھر کا صفایا کرنا۔ ٹوٹنا۔

گھر میں۔ ۱۱۔ تابع فعل، کنایتاً زوجہ بیوی۔

گھر میں لگانا۔ ۱۱۔ محاورہ ۲۔ گھر کا تباہ کرنا، نیست دانا بود کرنا۔

گھر میں آنا۔ ۱۱۔ محاورہ ۲۔ مکان میں داخل ہونا، کسی سیاسے کا برج میں داخل ہونا، ۲۰۔ اپنے ہاتھ لگنا، اپنی ذات کو فائدہ پہنچانا۔

گھر میں آئی جوئے۔ ۱۱۔ طیر صہی بگڑا سی سیدھی ہوئے۔ ۱۱۔ نیشل

گھڑی میں ادلیا گھڑی میں بھوت ۱۶۔ مثل، ذرا سی بات میں خوش ہونا۔
ذرا سی باتوں میں بگھانا۔

گھڑی میں لوگ گھڑی میں ماشہ ۱۱۔ مثل، غیر مستقل مزاج۔ کبھی کبھی کچھ۔
دم بھر میں طبیعت بدلتے والا۔

گھڑی میں گھڑیاں ہے ۱۱۔ مثل، مرتے دیے نہیں گنتی۔ گھڑی میں کچھ ہے تو
دم بھر میں کچھ۔

گھڑیا ۱۱۔ مثل، گھڑی کی تصغیر، کھال جس میں سونا چاندی لگھلایا جاتا ہے۔
۳، شہد کی مکھیاں یا بھڑوں کا چیتا۔ جمال، دم، رقم۔ بچہ دان۔

گھڑیاں گننا ۱۱۔ محاورہ، شدت سے انتظار کرنا۔ کسی کے انتظار میں
دقت کاٹنا۔

گھڑی ۱۶۔ مثل، ایک قسم کی آتش بازی۔

گھڑیاں گھڑیاں ۱۱۔ مثل، گھڑیاں کا وہ گھنٹہ جو مندروں یا امیروں کے دروازے
پر بٹکایا جاتا ہے، ۲، مگر۔ بھنگ۔

گھڑیاں گھڑیاں ۱۱۔ مثل، گھڑیاں کا گھنٹہ والا۔

گھس ۱۱۔ مثل، گھاس کا مخفف۔

گھس گھس ۱۱۔ مثل، گھس گھس کا گھونٹنے والا، ۲، ادنیٰ۔ کینہ
رزیل، ۳، انڈی، ناشائستہ، ناکارہ۔ نادان۔ احمق۔ بے وقوف۔

گھسا ۱۱۔ مثل، گھسا گھسا۔

گھسا گھسا ۱۱۔ مثل، گھسا گھسا۔

گھسا گھسا ۱۱۔ مثل، گھسا گھسا۔

گھسا گھسا ۱۱۔ مثل، گھسا گھسا۔

گھسا گھسا ۱۱۔ مثل، گھسا گھسا۔

گھس گھس ۱۱۔ مثل، گھس گھس۔

گھس گھس ۱۱۔ مثل، گھس گھس۔

گھس گھس ۱۱۔ مثل، گھس گھس۔

گھس گھس ۱۱۔ مثل، گھس گھس۔

گھس گھس ۱۱۔ مثل، گھس گھس۔

گھس گھس ۱۱۔ مثل، گھس گھس۔

گھس گھس ۱۱۔ مثل، گھس گھس۔

گھس گھس ۱۱۔ مثل، گھس گھس۔

گھس گھس ۱۱۔ مثل، گھس گھس۔

گھس گھس ۱۱۔ مثل، گھس گھس۔

گھڑ مٹھا ۱۱۔ مثل، وہ شخص جس کا منہ گھوڑے کے منہ سے ملتا ہو
لیے منہ یا تھو تھنی والا۔

گھڑ ناں ۱۱۔ مثل، ٹوپ۔ ربگلہ۔

گھڑا ۱۱۔ مثل، ٹرا، ۱۱۔ مثل، ٹھیلی، مٹی کا شکار۔

گھڑوں پانی پڑ جانا ۱۱۔ محاورہ، نہایت شرمندہ ہو جانا۔ شرم کے ماسے
پسینہ پسینہ ہو جانا۔

گھڑے لٹھانا ۱۱۔ محاورہ، گھڑے کا پانی بہانا، بہت شرمندہ کرنا۔
گھڑا ۱۱۔ مثل، ٹرا، ۱۱۔ مثل، ٹھیلی، مٹی کا شکار۔

گھڑا دن ۱۱۔ مثل، ٹرا، دن، ۱۱۔ مثل، گھڑے کی اُجرت۔

گھڑا ۱۱۔ مثل، ٹرا، ۱۱۔ مثل، گھڑے کی اُجرت۔ بنانے کی مزدوری، ۱۱،
گھڑت۔ ساخت۔ بنا دت۔

گھڑت۔ گھڑت، ۱۱۔ مثل، ساخت، بنا دت۔ تصنع، ۲، بنائی
ہوئی بات۔ جھوٹی بات۔

گھڑا گھڑا ۱۱۔ مثل، گھڑا گھڑا، ہنٹ، ۱۱۔ مثل، گھڑا گھڑا کی آواز۔ گاری یا چکی
چلنے کی آواز۔ گھڑا گھڑا بھی مستقل ہے۔

گھڑا گھڑا ۱۱۔ مثل، گھڑا گھڑا، ہنٹ، ۱۱۔ مثل، گھڑا گھڑا کی آواز۔ گاری یا چکی
چلنے کی آواز۔ گھڑا گھڑا بھی مستقل ہے۔

گھڑا گھڑا ۱۱۔ مثل، گھڑا گھڑا، ہنٹ، ۱۱۔ مثل، گھڑا گھڑا کی آواز۔ گاری یا چکی
چلنے کی آواز۔ گھڑا گھڑا بھی مستقل ہے۔

گھڑا گھڑا ۱۱۔ مثل، گھڑا گھڑا، ہنٹ، ۱۱۔ مثل، گھڑا گھڑا کی آواز۔ گاری یا چکی
چلنے کی آواز۔ گھڑا گھڑا بھی مستقل ہے۔

گھڑا گھڑا ۱۱۔ مثل، گھڑا گھڑا، ہنٹ، ۱۱۔ مثل، گھڑا گھڑا کی آواز۔ گاری یا چکی
چلنے کی آواز۔ گھڑا گھڑا بھی مستقل ہے۔

گھڑا گھڑا ۱۱۔ مثل، گھڑا گھڑا، ہنٹ، ۱۱۔ مثل، گھڑا گھڑا کی آواز۔ گاری یا چکی
چلنے کی آواز۔ گھڑا گھڑا بھی مستقل ہے۔

گھڑا گھڑا ۱۱۔ مثل، گھڑا گھڑا، ہنٹ، ۱۱۔ مثل، گھڑا گھڑا کی آواز۔ گاری یا چکی
چلنے کی آواز۔ گھڑا گھڑا بھی مستقل ہے۔

گھڑا گھڑا ۱۱۔ مثل، گھڑا گھڑا، ہنٹ، ۱۱۔ مثل، گھڑا گھڑا کی آواز۔ گاری یا چکی
چلنے کی آواز۔ گھڑا گھڑا بھی مستقل ہے۔

گھڑا گھڑا ۱۱۔ مثل، گھڑا گھڑا، ہنٹ، ۱۱۔ مثل، گھڑا گھڑا کی آواز۔ گاری یا چکی
چلنے کی آواز۔ گھڑا گھڑا بھی مستقل ہے۔

گھڑا گھڑا ۱۱۔ مثل، گھڑا گھڑا، ہنٹ، ۱۱۔ مثل، گھڑا گھڑا کی آواز۔ گاری یا چکی
چلنے کی آواز۔ گھڑا گھڑا بھی مستقل ہے۔

گھڑا گھڑا ۱۱۔ مثل، گھڑا گھڑا، ہنٹ، ۱۱۔ مثل، گھڑا گھڑا کی آواز۔ گاری یا چکی
چلنے کی آواز۔ گھڑا گھڑا بھی مستقل ہے۔

گھڑا گھڑا ۱۱۔ مثل، گھڑا گھڑا، ہنٹ، ۱۱۔ مثل، گھڑا گھڑا کی آواز۔ گاری یا چکی
چلنے کی آواز۔ گھڑا گھڑا بھی مستقل ہے۔

گھڑا گھڑا ۱۱۔ مثل، گھڑا گھڑا، ہنٹ، ۱۱۔ مثل، گھڑا گھڑا کی آواز۔ گاری یا چکی
چلنے کی آواز۔ گھڑا گھڑا بھی مستقل ہے۔

گھسیڑنا۔ رگہ۔ سٹیٹ۔ ۱۰۶۔ مص (مندر داخل کرنا، ۲، ٹھونسنا، ۳، ایک چیز کو دھری
 چیز میں زور سے داخل کرنا۔
 گھکوار۔ رگت۔ وار۔ ۱۰۶۔ ۱۔ مذم (گھنٹی کے خاندان کا ایک پودا جس
 کے پتے موٹے اور ٹوہپے ہوتے ہیں اور ان میں نیس وار مادہ بھرا
 ہوتا ہے۔ گھی کوار۔
 گھگرا۔ رگت۔ را، ۱۰۶۔ ۱۔ مذم (گھنٹا۔ دیکھیے گھاگا۔
 گھگری۔ گھگریا۔ رگت۔ زی۔ گھ۔ گز۔ یا، ۱۰۶۔ ۱۔ مٹ (گھگرا کی تصغیر اور ناریٹ
 جو پھر نکتے سے بنتا ہے، ۳، دخانی کارخانوں کے انجن کی
 آواز۔
 گھگلی۔ رگت۔ گلی، ۱۰۶۔ ۱۔ مٹ (فاختہ۔
 گھگلی۔ رگت۔ گلی، ۱۰۶۔ ۱۔ مٹ (پگلی۔ روتے روتے سانس کارک کر لگنا، ۲، خود یا
 دہشت کے مارے نکتے کا نام۔
 گھگلی بندھ جانا۔ ۱۱۔ محاورہ (روتے روتے سانس بند ہو جانا، پگلی بندھ جانا۔
 ۲، ڈر کے مانے بول نہ سکتا ہوں۔
 گھگھانا۔ رگت۔ یا۔ نا، ۱۰۶۔ ۱۔ مص (گھگلی بندھ جانا، ۲، عاجزی کرنا۔ مٹ سہاوت کرنا
 گز گزانا۔
 گھل۔ ۱۶۔ فعل (گھلنا مصدر کا فعل امر۔
 گھلا۔ رگہ۔ لا، ۱۰۶۔ ۱۔ صفت (گھلا ہوا۔
 گھلا۔ ۱۱۔ مذم (سبے تکلف۔
 گھلانا۔ رگہ۔ لا۔ نا، ۱۰۶۔ ۱۔ مص (گھلانا، ۲، ملائم کرنا، ۲، ڈبلا کرنا، ۳، لاغر کرنا،
 ۳، تحلیل کرنا۔
 گھلاوٹ۔ گھلاوٹ۔ رگہ۔ لا۔ وٹ۔ گھ۔ لا۔ ٹھٹ۔ ۱۰۶۔ ۱۔ مٹ (ملاکت
 نرمی۔ گھراڑنا۔ پھلا ہٹ۔
 گھلاوٹ کی آگھ۔ ۱۱۔ محاورہ (محببت کی نگاہ۔ وہ نظر جو اپنی طرف
 مائل کرے۔
 گھلاڈینا۔ رگت۔ صفت (فریب۔ ترغیب۔ دل فریبی۔
 گھل جانا۔ رگت۔ جانا، ۱۰۶۔ ۱۔ مص (پھل جانا، ۲، نرم ہو جانا۔ گھراڑنا ہو جانا۔
 پھلا ہو جانا، ۳، پانی ہو جانا۔ رقیق ہو جانا، ۴، تھک جانا، ۵، مضمل ہو جانا، ۶،
 ڈبلا ہو جانا، ۷، لاغر ہو جانا۔ شوکھ جانا، ۹، پھلا پڑ جانا۔
 گھل کر بیٹھنا۔ ۱۶۔ محاورہ (گھل کر بیٹھنا۔
 گھل گھل کر کے، رگت۔ گھل۔ گھل۔ کر کے، ۱۰۶۔ ۱۔ ملنے فعل (تحلیل ہو کر۔ ڈبلا
 ہو کر۔
 گھل گھل کر آخر تمام، ہونا۔ ۱۱۔ محاورہ (تحلیل ہو کر مرنا، غم بیماری یا عشق
 سے رنج و توجہ کر دم دینا۔ ڈبلا اور لاغر ہو کر مرنا۔
 گھل گھل کر کے، آگھا ہونا، ۱۱۔ محاورہ (غم بیماری کے باعث گھل گھل کر
 لاغر اور ڈبلا ہونا۔ شوکھ کر کے کی طرح لاغر ہو جانا۔
 گھل گھل کر مرنا۔ ۱۱۔ محاورہ (غم بیماری میں تحلیل ہو کر جان دینا۔ نہایت
 ڈبلا اور لاغر ہو کر مرنا۔

والا۔ مداخلت کرنے والا۔
 گھس۔ مٹ۔ ۱۱۔ مٹ (دیکھیے گھس۔
 گھسنے۔ گھسنے۔ مٹ۔ ۱۱۔ محاورہ (پلے پلے پڑے پھرنا۔ کھینچے
 کھینچے پھرنا۔
 گھسٹنا۔ رگہ۔ سٹ۔ نا، ۱۰۶۔ ۱۔ مص (گھسٹنا، ۲، زمین سے رگڑا
 ہوا جانا۔
 گھس ڈالنا۔ رگت۔ ڈال، نا، ۱۰۶۔ ۱۔ مص (رگڑ ڈالنا۔
 گھس کر لگنے کو نہیں۔ ۱۶۔ مٹ (انتہا نہیں کر کوئی چیز گھس کر دوا کی
 بجائے لگائیں۔ ذرا نہیں۔ مطلق نہیں۔ بالکل نہیں (۲، نا پیداوار
 عقاب ہے۔ نہایت کیا ہے (۳، کچھ نہیں بچا۔ سب کچھ مٹ
 ہو گیا۔
 گھس گھس کرنا۔ رگت۔ گھس۔ گھس۔ کر۔ چل۔ نا، ۱۱۔ محاورہ (پڑے یا جوتے کا نوپا
 اور مٹ تک استعمال میں آنا۔
 گھس گھس کرنا۔ رگت۔ گھس۔ کر۔ نا، ۱۶۔ محاورہ (کانا بھوسی کرنا، ۲، کام
 گھس کر کے میاں کرنا۔
 گھس گھسنا۔ رگت۔ گھس۔ گھس۔ ۱۰۶۔ ۱۔ مذم (دوسرے کو زمین
 پر رگڑے دینا، ۲، ایک پتنگ کی ڈوسے دوسرے پتنگ کی ڈوسرے
 گور گڑا دینا۔
 گھسن۔ رگہ۔ سن۔ ۱۰۶۔ ۱۔ مٹ (رگڑ۔
 گھسنا۔ رگت۔ گھس۔ نا، ۱۰۶۔ ۱۔ مص (رگڑا کرنا، ۲، لگنا، ۳، پڑنا، ۴، فرسودہ ہونا، ۵، رگڑ
 میں کم ہونا، ۶، رگڑنا، ۷، پینا، ۸، عمل کرنا۔
 گھسنا۔ رگت۔ نا، ۱۰۶۔ ۱۔ مص (اندر جانا، داخل ہونا، ۲، دخل دینا۔
 مداخلت کرنا۔
 گھسنی۔ رگہ۔ سن۔ پٹ۔ ٹی، ۱۰۶۔ ۱۔ مٹ (مار لگائی۔ زرد کو ب۔
 گھسوٹا۔ رگت۔ سوٹا، نا، ۱۰۶۔ ۱۔ مص (گھسنا مصدر سے متدی اور گھسنا مصدر
 سے متدی المقدی۔
 گھسیارا۔ رگت۔ یا۔ را، ۱۰۶۔ ۱۔ مذم (گھاس کھودنے والا، ۲، گھاس
 بیچنے والا۔
 گھسیارن۔ گھسیاری۔ ۱۰۶۔ ۱۔ مٹ (گھسیار کی ناریٹ۔ گھاس کھونے
 یا بیچنے والی عورت۔
 گھسیڑ۔ رگہ۔ سٹ۔ ۱۰۶۔ ۱۔ مٹ (وہ نشان جو زمین پر کسی چیز کے گھسنے
 سے ظاہر ہو۔
 گھسیٹا گھسائی۔ رگہ۔ سی۔ ٹی۔ گھ۔ ساٹی، ۱۰۶۔ ۱۔ مٹ (کھینچا۔ کھینچی۔
 کھینچا تانی۔
 گھسیٹن۔ رگہ۔ سی۔ ٹن۔ ۱۰۶۔ ۱۔ مٹ (گھسیٹے کا نشان وہ نشان جو کسی چیز کے
 زمین پر کھینچنے سے پڑ جاتا ہے۔
 گھسیٹنا۔ گھسیٹنا۔ رگہ۔ سیٹ۔ نا۔ گھ۔ بٹ۔ نا، ۱۰۶۔ ۱۔ مص (کھینچنا۔ زمین
 پر رگڑنے ہوئے سے جانا، ۲، جلد جڑا تھلا لکھ دینا، ۳، پھلوا ہونا، ۴،
 مصیبت میں مبتلا کرنا۔
 گھسیڑنا۔ رگت۔ ڈا۔ ان۔ ۱۰۶۔ ۱۔ مذم (خراس۔

گھنٹی سادھنا - ۱۶۔ عمارہ (جان کر خاموش ہو جانا۔
 گھنٹی سمسسی - ۱۱۔ مٹ مٹ کر۔ دیدہ دانستہ تنگ کتنے کے لیے چپ
 سادھ جانے والی۔
 گھنٹیاں - رنگن یا نا، ۱۶۔ مٹ کسی مکروہ چیز سے طبیعت کا لگن کھانا۔ گندی
 چیز سے نفرت کرنا۔
 گھنیرا گھنیری - مڑکے۔ را۔ گھ۔ نئے۔ ری، ۱۵۔ صفت گھنا۔ گہرا۔ بہت۔
 گھنٹیس۔ گھنٹیش۔ رنگ۔ نیش۔ گھ۔ نیش، ۱۶۔ مٹ۔ ایک آبی بندے
 کا نام۔ دھتیس۔
 گھوٹا - گھوٹا، ۱۵۔ مٹ۔ ایک کڑے کانام جو پانی کے کنارے رہتا ہے، ۱۶۔ سرکنڈے
 کے اوپر کا پھول جو روٹی کے مانند ہوتا ہے۔
 گھوٹ - گھوٹ، ۱۵۔ مٹ۔ گھوٹا پالش۔
 گھوٹا - گھوٹا، ۱۵۔ مٹ۔ کاغذ گھوٹے کا مہر اصات یا چمکلا بنانے کا اوزار، ۱۶۔
 آسترے سے سر یاد اڑھی کی صفائی، چار اڑو کا صفنا۔
 گھوٹا - گھوٹا، ۱۵۔ مٹ۔ رگڑنا۔ حل کرنا۔ باریک کرنا، ۱۶۔ مہرے سے صفائی لڑنا
 ۱۶۔ مٹ۔ بار بار بڑھ کر ذمی نشین کر لینا۔
 گھولوانا - ۱۵۔ مٹ۔ آسترے سے اس طرح منڈوانا کہ گھوٹنی تنگ
 باقی نہ رہے۔
 گھور - ۱۵۔ مٹ۔ وصف غلاظت۔ میل۔ چرک، ۱۶۔ خوفناک۔ مہیا تک۔ ڈراؤنا۔
 ۱۶۔ مٹ۔ نظر بندی۔ غصہ کی نظر، ۱۶۔ مٹ۔ شب۔
 گھور گھور دیکھنا - ۱۵۔ مٹ۔ مٹ۔ نظر سے دیکھنا۔
 گھورا - گھورا، ۱۵۔ مٹ۔ چوپایوں کے رہنے کی سایہ دار جگہ۔
 گھورا - گھورا، ۱۵۔ مٹ۔ وہ جگہ جہاں کوڑا کرکٹ مین کھانے
 ۱۶۔ مٹ۔ چرک۔ گوہ۔ وغیرہ جو خاکروب صاف کیے جاتے ہیں۔
 ۱۶۔ مٹ۔
 گھورا گھاری - گھورا، ۱۵۔ مٹ۔ ری، ۱۵۔ مٹ۔ نظر بازی۔ ایک دوسرے
 کو محبت کی نظر سے بخور دیکھنا۔
 گھورچی - گھورچی، ۱۵۔ مٹ۔ آگے کی گرہ۔ اٹھنی۔
 گھورنا - گھورنا، ۱۵۔ مٹ۔ منگی ہانڈہ کر دیکھنا۔ غور سے دیکھنا، ۱۶۔ منگی
 کی نظر سے دیکھنا۔ تیز نگاہ سے دیکھنا، ۱۶۔ دیار بازی کرنا۔ محبت کی نظر سے
 دیکھنا۔ آنکھیں طمانا۔
 گھوری - گھوری، ۱۵۔ مٹ۔ غلیظ۔ میلا۔ گندا۔
 گھوڑا - گھوڑا، ۱۵۔ مٹ۔ ایک چوپایہ جس کے سٹم ٹھوس ہوتے ہیں اور
 دم اور بال لمبی ہوتی ہے اور سواری کے کام آتا ہے، ۱۶۔ اسب
 مرکب۔ قوسن، ۱۶۔ شطرنج کا ایک مہرہ، دم، بندوق کا گنا۔ دو چھینٹی
 جس کے دبانے سے بندوق ملتی ہے۔
 گھوڑا اٹھانا - ۱۵۔ مٹ۔ گھوڑے کو دوڑانا۔ گھوڑا بھگانا۔
 گھوڑا اٹھانا - ۱۵۔ مٹ۔ گھوڑے کو سر پٹ دوڑانا۔
 گھوڑا اڑنا - ۱۱۔ مٹ۔ گھوڑے کا بگڑے نہ ہونا۔ گھوڑے کا
 سر پٹ کرنا۔
 گھوڑا اٹھنا - ۱۶۔ مٹ۔ گھوڑے پر پہلی بار سواری کرنا۔

گھوڑا اٹھنا - ۱۱۔ مٹ۔ گھوڑے کا روگردان ہونا۔ واپس مڑ جانا۔
 گھوڑا اور پھوڑا جتنا روکو اتنا ہی بڑھے۔ ۱۱۔ مٹ۔ دونوں پر ہاتھ پھیرا
 جانے تو بہت بڑھتے ہیں۔
 گھوڑا بڑھانا - ۱۶۔ مٹ۔ گھوڑے کو آگے کرنا، ۱۶۔ مٹ۔ گھوڑا تیز چلانا۔ گھوڑا
 دوڑانا۔
 گھوڑا بڑھ جانا - ۱۶۔ مٹ۔ گھوڑے کا سبقت لے جانا۔
 گھوڑا اٹھ جانا - ۱۱۔ مٹ۔ گھوڑے کا بند بند تھاک کر کھڑ جانا۔
 گھوڑا پالانا - ۱۱۔ مٹ۔ گھوڑے پر کاٹھی یا زین رکھنا۔
 گھوڑا پائے پر چڑھانا - ۱۶۔ مٹ۔ بندوق کے گتے کو پٹانے پر زور
 ڈالنے کے لیے اٹھانا۔
 گھوڑا پھیرنا - ۱۶۔ مٹ۔ گھوڑے کو سدھانا، ۱۶۔ مٹ۔ گھوڑے کو
 واپس کرنا۔
 گھوڑا چھینکنا - ۱۶۔ مٹ۔ گھوڑے کو کسی چیز کے پیچھے دوڑانا
 گھوڑا ڈالنا۔
 گھوڑا حراش یا ہونا - ۱۱۔ مٹ۔ گھوڑے کا کھپکھپانگوں پر کھڑا ہو جانا۔
 گھوڑا چھوڑ جانا - ۱۱۔ مٹ۔ بندوق کی چانپ کو ٹوٹی پر بندوق دانے
 کے لیے چڑھانا۔
 گھوڑا اچھکنا - ۱۱۔ مٹ۔ گھوڑے کو تیز چلانا۔
 گھوڑا چھوڑنا - گھوڑے کو گھوڑی پر بچھنے کے لیے بڑھانا، ۱۶۔ مٹ۔ دوڑانا۔
 ۱۶۔ مٹ۔ کو اس کی مرضی پر چھوڑنا، ۱۶۔ مٹ۔ بچنے ہوئے گھوڑے کو گاڑی سے نکلانا۔
 ۱۵۔ مٹ۔ گھوڑے کو جسے کے لیے کھلا چھوڑنا۔
 گھوڑا داغ ہونا - ۱۱۔ مٹ۔ سواریوں کے زمرے میں لوگ ہونا۔
 گھوڑا دوڑانا - ۱۱۔ مٹ۔ گھوڑا بھگانا۔ گھوڑے کو سر پٹ کرنا۔ گھوڑا
 تیز چلانا۔
 گھوڑا ڈالنا - ۱۱۔ مٹ۔ گھوڑے کو سر پٹ دوڑانا، ۱۶۔ مٹ۔ گھوڑے کو کسی
 کے پیچھے لیکھنا۔
 گھوڑا امان گتے نیچے ہونا - ۱۱۔ مٹ۔ گھوڑے کی سواری ہونا۔
 گھوڑا اکستا - ۱۱۔ مٹ۔ گھوڑا سواری کے لیے تیار کرنا
 گھوڑا اگھاس سے آشنائی کرے تو بھوکا مٹے۔ ۱۶۔ مٹ۔ مزدور مزدوری
 دے تو بھوکا مٹے۔ معاملے کی جگہ موت برتنے سے فائدہ نہیں ہوتا۔ اپنا مطلب
 کوئی نہیں چھوڑنا۔
 گھوڑا گھڑ سال ہی میں قیمت پاتا ہے - ۱۶۔ مٹ۔ ہر چیز
 اپنی ہی جگہ قابل قدر ہوتی ہے۔ گھوڑے کی پوری قیمت تھان ہی پر
 ملتی ہے۔
 گھوڑا مارنا - گھوڑا بھگانا۔ گھوڑے کو اڑھ لگانا۔
 گھوڑا ملا لو کوڑا بھی مل جائے گا۔ ۱۶۔ مٹ۔ بڑا کام ہو جائے تو چھوٹے کی
 کیا تکلادہ بھی ہو جائے گا۔
 گھوڑا نکالنا - ۱۶۔ مٹ۔ گھوڑے کو گاڑی کے لیے سدھانا۔ گھوڑے کو سواری
 کے قابل بنانا، ۱۶۔ مٹ۔ گھوڑے کو آگے لے جانا۔ گھوڑا بڑھانا، ۱۶۔ مٹ۔ دونوں میں
 شیوں کا ڈھل نکلانا۔

گھوڑوں کو گھرنی دُور ۱۶۔ مثل گھوڑوں کے آگے مسافت اور فاصلہ کچھ چیز نہیں۔ دوز کو ذرا پہنچ جاتے ہیں۔ کام کرنے والے کے لیے سب کچھ آسان ہے۔

گھوڑے بیچ کر سونا۔ ۱۶۔ عمارہ ۲ پاؤں پھیلا کر سونا بے فکری سے سونا۔ گھوڑے جوڑے کی خیر۔ ۱۶۔ عمارہ ۱ میں بومی اور سواری کا گھوڑا سنا ہے۔

گھوڑے دوڑانا۔ ۱۶۔ عمارہ ۲ کنا پیرا بہت محنت کرنا۔ بہت کوشش کرنا۔ دور کی باتیں سوچنا۔

گھوڑے دوڑیے۔ ۱۶۔ مثل، خواہش، طاقت یا قوت کا ختم ہونا۔ گھوڑے سوار۔ ۱۶۔ مذ ۱۔ سب سوار۔ گھوڑے سوار۔ جلد باز۔

گھوڑے کو لات اور آدمی کو بات۔ ۱۶۔ مثل، نادان کو مار پیٹ اور آدمی کو اشارہ کرنا ہے۔

گھوڑے کی دم بڑھے گی تو اپنی ہی کھلی اڑائے گا۔ ۱۶۔ مثل ہر شخص اپنی ترقی سے خود ہی فائدہ اٹھاتا ہے۔ اُوروں کے کام نہیں آتا۔

گھوڑے کی شادی کرنا۔ ۱۶۔ عمارہ ۲ گھوڑا بچپن اور بچہ گھوڑے کی نسبت بچپن کا لفظ استعمال کرنا بڑا سمجھتے ہیں۔ اس لیے بچپن کی بجائے شادی کرنا کہتے ہیں۔

گھوڑے کے دانت کی سیاہی۔ دانتوں کی سیاہی جس سے گھوڑے کی عمر کا اندازہ لگا جا سکتا ہے۔

گھوڑے گھوڑے لڑیں۔ موحی کا ترین لڑے۔ ۱۶۔ مثل زبردستی سے کھڑکوں میں کزورنا حق نقصان پہنچانے کے لیے کئی۔

گھوڑے کے کدھول کا لاج آیا۔ ۱۶۔ مثل، شریفین گئے ہو قرف ان کی جگہ قائم مقام ہوئے۔

گھوڑی۔ ۱۶۔ عمارہ ۲ (گھوڑی، ۵)۔ ۱۔ مثل، گھوڑی کا تائیت ۱۱، مادہ ۱ سب۔

۱۴۔ سو پان بنانے کا آکر رس وہ لکڑی جو گھوڑے کے تھپنے کیلئے تیار کیے نیچے گھوڑی کر دیتے ہیں ۱۴) کچرا ڈالنے کی جوتی تپانی ۵۵، بچوں کا

ایک کیل یعنی جس کی چلی لیں اُسے گھوڑی کہتے ہیں ۱۶) بانس کے بیج میں سے چری ہوئی لکڑی جس سے تھنے کے وقت کھال دبا کر کاٹتے ہیں۔

گھوڑی چڑھانا۔ تھنے کی رسم ادا کرنا ۱۶) چری ہوئی لکڑی سے بچے کے عضو مخصوص کی کھال بچوڑا کرنا ۱۶) بات چڑھانا۔

گھوڑی چڑھنا۔ تندرست ہو کر کسی مندس جگہ دھوم دھام سے شکرے صحت ادا کرنے کے لیے جانا ۱۶) تھنی کی رسم ادا ہونا ۱۶) کلبان کر دہن کے مکان پر جانا۔

گھوس۔ ۱۶۔ ۱۔ مذ ۱ ایک قسم کا بڑا جہا۔ گھوس ۱۶) رشوت۔ گھوس دان۔ ۱۶۔ ۱۔ مذ ۱ چھبے دان۔ جس میں جہے کھلتے ہیں۔

گھوسلت۔ گھوسلت ۱۶۔ ۱۔ مذ ۱ آؤ۔ چھوٹا آؤ۔ گھوسلا۔ گھوسلا ۱۶۔ ۱۔ مذ ۱ مرہوں کا ایک قبیلہ۔

گھوسم گھولنا۔ گھو۔ گھوم۔ گھوم ۱۶۔ ۱۔ مذ ۱ مکا بازی۔ مار کٹائی۔

زود کو سب۔

گھوسن۔ گھوسن ۱۶۔ ۱۔ مذ ۱۔ مثل، گوان۔ دودھ بچنے والی۔ گھوسی۔ گھوسی ۱۶۔ ۱۔ مذ ۱۔ گائے بچیس پرانے والا ۱۶) گھاس کا ٹھنڈا لکھنا۔

۱۶) گوالا۔ دودھ بچنے والا۔ گھوش۔ گھوش ۱۶۔ ۱۔ مذ ۱۔ گھوش ۱۶) گوالوں کی ذات ۱۶) بنگالی کا سٹھلہ کی ایک گوت۔

گھولنا۔ گھولنا ۱۶۔ ۱۔ مذ ۱۔ مصلح کا بار بار ٹھنڈا کرنا۔ گھوس۔ گھوس ۱۶۔ ۱۔ مذ ۱۔ مصلح کا بار بار ٹھنڈا کرنا۔

گھولی۔ گھولی ۱۶۔ ۱۔ مذ ۱۔ مصلح کا بار بار ٹھنڈا کرنا۔ گھول۔ گھول ۱۶۔ ۱۔ مذ ۱۔ مصلح کا بار بار ٹھنڈا کرنا۔

گھولنا۔ گھولنا ۱۶۔ ۱۔ مذ ۱۔ مصلح کا بار بار ٹھنڈا کرنا۔ گھولنا۔ گھولنا ۱۶۔ ۱۔ مذ ۱۔ مصلح کا بار بار ٹھنڈا کرنا۔

گھولنا۔ گھولنا ۱۶۔ ۱۔ مذ ۱۔ مصلح کا بار بار ٹھنڈا کرنا۔ گھولنا۔ گھولنا ۱۶۔ ۱۔ مذ ۱۔ مصلح کا بار بار ٹھنڈا کرنا۔

گھولنا۔ گھولنا ۱۶۔ ۱۔ مذ ۱۔ مصلح کا بار بار ٹھنڈا کرنا۔ گھولنا۔ گھولنا ۱۶۔ ۱۔ مذ ۱۔ مصلح کا بار بار ٹھنڈا کرنا۔

گھولنا۔ گھولنا ۱۶۔ ۱۔ مذ ۱۔ مصلح کا بار بار ٹھنڈا کرنا۔ گھولنا۔ گھولنا ۱۶۔ ۱۔ مذ ۱۔ مصلح کا بار بار ٹھنڈا کرنا۔

گھولنا۔ گھولنا ۱۶۔ ۱۔ مذ ۱۔ مصلح کا بار بار ٹھنڈا کرنا۔ گھولنا۔ گھولنا ۱۶۔ ۱۔ مذ ۱۔ مصلح کا بار بار ٹھنڈا کرنا۔

گھولنا۔ گھولنا ۱۶۔ ۱۔ مذ ۱۔ مصلح کا بار بار ٹھنڈا کرنا۔ گھولنا۔ گھولنا ۱۶۔ ۱۔ مذ ۱۔ مصلح کا بار بار ٹھنڈا کرنا۔

گھولنا۔ گھولنا ۱۶۔ ۱۔ مذ ۱۔ مصلح کا بار بار ٹھنڈا کرنا۔ گھولنا۔ گھولنا ۱۶۔ ۱۔ مذ ۱۔ مصلح کا بار بار ٹھنڈا کرنا۔

گھولنا۔ گھولنا ۱۶۔ ۱۔ مذ ۱۔ مصلح کا بار بار ٹھنڈا کرنا۔ گھولنا۔ گھولنا ۱۶۔ ۱۔ مذ ۱۔ مصلح کا بار بار ٹھنڈا کرنا۔

گھولنا۔ گھولنا ۱۶۔ ۱۔ مذ ۱۔ مصلح کا بار بار ٹھنڈا کرنا۔ گھولنا۔ گھولنا ۱۶۔ ۱۔ مذ ۱۔ مصلح کا بار بار ٹھنڈا کرنا۔

گھولنا۔ گھولنا ۱۶۔ ۱۔ مذ ۱۔ مصلح کا بار بار ٹھنڈا کرنا۔ گھولنا۔ گھولنا ۱۶۔ ۱۔ مذ ۱۔ مصلح کا بار بار ٹھنڈا کرنا۔

گھولنا۔ گھولنا ۱۶۔ ۱۔ مذ ۱۔ مصلح کا بار بار ٹھنڈا کرنا۔ گھولنا۔ گھولنا ۱۶۔ ۱۔ مذ ۱۔ مصلح کا بار بار ٹھنڈا کرنا۔

گھولنا۔ گھولنا ۱۶۔ ۱۔ مذ ۱۔ مصلح کا بار بار ٹھنڈا کرنا۔ گھولنا۔ گھولنا ۱۶۔ ۱۔ مذ ۱۔ مصلح کا بار بار ٹھنڈا کرنا۔

گھولنا۔ گھولنا ۱۶۔ ۱۔ مذ ۱۔ مصلح کا بار بار ٹھنڈا کرنا۔ گھولنا۔ گھولنا ۱۶۔ ۱۔ مذ ۱۔ مصلح کا بار بار ٹھنڈا کرنا۔

گھولنا۔ گھولنا ۱۶۔ ۱۔ مذ ۱۔ مصلح کا بار بار ٹھنڈا کرنا۔ گھولنا۔ گھولنا ۱۶۔ ۱۔ مذ ۱۔ مصلح کا بار بار ٹھنڈا کرنا۔

گھولنا۔ گھولنا ۱۶۔ ۱۔ مذ ۱۔ مصلح کا بار بار ٹھنڈا کرنا۔ گھولنا۔ گھولنا ۱۶۔ ۱۔ مذ ۱۔ مصلح کا بار بار ٹھنڈا کرنا۔

گھونٹا - گھونٹا، نا، ۵۶، صفت، تجربہ کار، غراٹھ - ہوشیار۔
 گھونٹنا - گھونٹنا، نا، ۵۶، (مصل) بری طرح سینا، (۲) گھسیڑنا، جھونکن۔
 گھونٹ ۱۰-۵۱-۱- مذم، تجربہ جیسی، پانی یا کسی رقیق چیز کی وہ مقدار جو ایک ذوقِ خلق سے اترے (۲) تھکے کا دم، شش۔
 گھونٹ اُتارنا - ۱۱- محاورہ، گھونٹ خلق کے نیچے لے جانا۔
 گھونٹ بھڑنا - ۱۲- محاورہ، تجربہ پینا، ۲۲ تھکے کا دم لگانا۔
 گھونٹ نی کر رہ جانا - ۱۱- محاورہ، رکنا، شش، غصہ، ضبط کرنا۔
 گھونٹ بھونٹ کر کے پینا (اتارنا) - ۱۱- محاورہ، ذرا ذرا پینا، بھڑنا۔
 گھونٹ بھونٹ کر کے پینا۔
 گھونٹ گھونٹ کر کے (رکھنا) - ۱۱- محاورہ، مجبور کر کے رکھنا، بھڑنا۔
 گھونٹ گھونٹ کر مارنا - ۱۱- محاورہ، سچ دے دے کر ملانا، جلا جلا کر
 کر مارنا، ۲۲، اندرونی مار دینا۔
 گھونٹ لگانا - ۱۱- محاورہ، تھکے کا دم لگانا۔
 گھونٹ لینا - ۱۱- محاورہ، پانی کا گھونٹ لینا، ۲۲ تھکے کا دم لینا۔
 گھونٹنا - گھونٹنا، نا، ۵۶، (مصل) گلا دہانا، دم روکنا، سانس بند کرنا، ۲۲،
 تنگ کرنا، دق کرنا۔
 گھونٹنا - گھونٹنا، نا، ۵۶، (مصل) گھونٹنا، جل کرنا، رکھنا، ۲۲، کسی چیز سے دگڑ
 کے کاغذ کو چکنا کرنا، ۳۳، کسی چیز کو اولیٰ یا کسی اور ظرف میں ڈال کر دستیاب
 کرنا، ۲۲، پینا، ۲۲، بار بار دہانا۔
 گھونٹوانا - (گھونٹ - وا، نا، ۵۱- (مصل) گھونٹنا، مستعدی، متعدی، ۲۲، استر
 سے ڈاڑھی اس طرح منڈوانا کہ بال کی کوئی تک کا نشان بھی باقی نہ رہے۔
 گھونٹ دیکھنے کو ٹوٹانا۔
 گھونٹی - (گھونٹی، ۱- ۵۱- ۱- مٹ) ایک دوای جو نولودھنے کو اس کا بیٹ صاف
 کرنے کیلئے دیتے ہیں، گھونٹی زیادہ مستعمل ہے۔
 گھونٹا - (۱- ۵۱- ۱- مذم) گھونٹا، گھونٹا، ۲۲، چوہا، ۲۲، رشوت۔
 گھونٹا - (گھونٹا، سا، ۵۱- ۱- مذم) گھونٹا، رشوت، ۲۲، چوہا، ۲۲، صدر۔
 گھونٹا جڑنا - گھونٹا جھلانا - گھونٹا مارنا - گھونٹا لگانا - ۱۱- محاورہ،
 مکا لگانا۔
 گھونٹا لکنا - ۱۱- محاورہ، اچانک صدرہ ہونا۔
 گھونٹوں کا کیا اُدھار - ۱۱- قول، ہر دم کی سزائیں کیلا، مار کا بڈلا فوراً۔
 گھونٹوں لڑنا - ۱۱- محاورہ، مکوں سے لڑنا، دگڑ بازی کن۔
 گھونٹلا - (گھونٹلا، ۱- ۵۱- ۱- مذم) ہر دموں کا گھرا، آشیانہ، ۲۲، چھوٹا سا گھر۔
 جھونپڑا۔
 گھونٹلا بنانا - ۱۱- محاورہ، ہر دموں کا گھرا، آشیانہ بنانا، جھونٹا سا گھر تعمیر کرنا، ۲۲، لڑنا،
 کسی کو معمول سی ملازمت دلانا۔
 گھونٹلا نوچنا - ۱۱- محاورہ، آشیانہ کو دیران کرنا۔
 گھونٹسم گھاسا - (گھونٹ - ستم، گھا، سا، ۵۱- ۱- مذم) گھونٹسم گھونٹسم۔
 زڈو، کک۔
 گھونٹسپا - (گھونٹس - یا، ۵۱- ۱- مذم) رشوت خوار کھٹو، یار۔
 گھونٹکا - (گھونٹ - گا، ۵۱- ۱- مذم) ایک قسم کے دیوانی لڑکے کا خول جو بڑی کی مانند

سیسی یا سبکو کی قسم سے ہے۔
 گھونٹ گھونٹ - گھونٹ گھونٹ - گھونٹ گھونٹ - گھونٹ گھونٹ - ۵۶- ۱- مذم) برقع، نقاب
 بدمدہ، چادر کا منہ پر پڑا، اوکا پٹا، ۲۲، روک، حجاب - دروازے کی اندرونی دیوار
 گھونٹ گھونٹ - (گھونٹ - حیا، لاج، لحاف۔
 گھونٹ گھونٹا اٹھانا - ۱۱- محاورہ، پردہ دور کرنا - دلہن کا سامنے ہونا، ۲۲،
 پردہ اُٹھانا کرنا۔
 گھونٹ لکنا - ۱۱- محاورہ، دلہن کا بے حجاب ہونا، ۲۲، گھونٹ بھا دینا۔
 گھونٹ کا چراغ ڈالنا - ۱۱- مذم) ایک قسم کا چراغ ڈالنا۔
 گھونٹ کا چھٹنا - ۱۱- محاورہ، گھونٹ لکنا۔
 گھونٹ کرنا - ۱۱- محاورہ، پردہ کرنا، ڈھپٹے سے منہ چھپانا، ۲۲، لحاف کرنا۔
 شرم کرنا، ۲۲، گھونٹے کا اپنی گردن کو پیچھے کی طرف موڑنا، دم، فتح
 کا پھینکا ہونا۔
 گھونٹ گھونٹ گھانا - ۱۱- محاورہ، لشکر یا فوج کا ٹھکانا یا رخ بدلتا، ۲۲، خشک
 رکھنا، منہ موڑنا، جھگ لکھنا۔
 گھونٹ گھونٹا - ۱۱- محاورہ، پردہ یا حجاب دور کرنا، منہ دکھانا۔
 گھونٹ گھونٹ کی دیوار - ۱۱- مذم) دروازے کے سامنے کی اندرونی دیوار
 پردے کی دیوار۔
 گھونٹ لینا - ۱۱- محاورہ، گھونٹ چہرے پر لینا، منہ چھپانا۔
 گھونٹ لکنا - ۱۱- محاورہ، پردہ کرنا، منہ چھپانا۔
 گھونٹ والی - ۱۱- محاورہ، برقع پوش عورت۔ پردہ دار، حیوادالی، شرم
 والی، ۲۲، دلہن عروس۔
 گھونٹوں، گھونٹوں، ۱- ۵۱- ۱- مذم) بالوں کا قدرتی پتھ و خم۔
 گھونٹوں والے بال - گھونٹوں والے بال - ۱۱- مذم) پتھ و خم والے بال۔
 گھونٹوں - (گھونٹوں، ۱- ۵۱- ۱- مذم) ایک قسم کا زیور جو پاؤں میں پہنتے ہیں
 گھونٹوں کے گلے میں ڈالتے والی جھونٹی، گھونٹوں، گھونٹوں۔
 گھونٹوں - (گھونٹوں، گھی، ۵۱- ۱- مٹ) مٹی کا لکایا ہوا گھونٹوں کے شکل کا گڑا۔
 جو کھجور کے بیج میں کھجور میں رختہ بندی کرنے کے لیے رکھتے ہیں، ۲۲، ایک
 کھجور کے کانام۔
 گھونٹوں، گھونٹوں، ۱- ۵۱- ۱- مٹ) گھونٹوں، اُٹے ہوئے پتھوں کیوں وغیرہ۔
 گھونٹیاں - ۱۱- مٹ) ایک قسم کی ترقاری، آروسی۔
 گھونٹوں، ۱- ۵۱- ۱- مذم) روضن تندو، چھلایا ہوا کھن، ۲۲، صم، طلائم۔
 گھونٹیاں اٹھانا - ۱۱- محاورہ، گھی بذب کرنا۔
 گھی جاٹ کا تیل ہارٹ کا - ۱۱- مٹ) گھی زمیندار کے ہاں ہی خالص مل سکتا ہے
 اور تیل دکھاندار کے ہاں کیونکہ وہاں پڑا رہنے سے اس کی مٹیل بیٹھ جاتی ہے۔
 گھی چڑنا - ۱۱- مٹ) مرکب، آروسی، چھوٹا سا گھی لگانا۔
 گھی داغ کرنا - ۱۱- محاورہ، گھی کا تھلا لگانا، گھی کھولنا۔
 گھی سنوارے (دسائوں، کام بڑی، مہو کا نام) - ۱۱- مٹ) کر کے کوئی نام کسی کا
 ہو، لذت گھی سے درست ہوتی ہے اور نام پلکنے والی کا ہو جاتا ہے۔
 گھی کا کینا لکھنا - ۱۱- محاورہ، روضن زرد کا اندھا ہونا، ۲۲، کسی بہت بڑے رئیس، امیر

جس کے پتے بلند ہوتے ہیں اور ان سے لیس دار مادہ نکلتا ہے۔ ۱ پ ۱
 کواردنڈیل۔
 گھونگا پلانا۔ دکھنے بگاڑنا۔ ۱۱۔ محاورہ: مگر کرنا۔ چیلانا۔
 گھونگلا۔ (دھی، ملا، ۵۱۔ ۱۔ مذ) ایک جنگلی پل۔
 گھونگٹ۔ ۵۱۔ ۱۔ مذ) کلا کچھو۔
 گھونگا۔ (دھن، ۵۱۔ ۱۔ مذ) سوز کاج کے پچھو۔
 گھونگی۔ (دھن، ۵۱۔ ۱۔ مذ) گھونگی کی ٹانگہ۔
 گھونگھا۔ (دھن، ۵۱۔ ۱۔ مذ) ایک مرض جس میں
 کلا بھول جاتا ہے۔ گھونگھا۔
 گھونگو۔ (ان۔ ۱۔ مذ) لگی۔
 گھونگور۔ (دھن، ۵۱۔ ۱۔ مذ) ایک قسم کی مٹھائی جو میدے اور گھی کی آمیزش سے
 تیار کرنا جاتی ہے۔
 گھونگورا۔ (۱۔ ۵۱۔ مذ) ایک قسم کا چھوٹا کھیرا۔

گ۔ ۷

گھونگو۔ (گورگ، ۱۔ ۵۱۔ مذ) گائے۔ بقر۔
 گھونگپال۔ (گوبال، ۵۱۔ صف ۱) گالوں کو پالنے والا (۲) کرشن جی
 کا لقب۔
 گھونگووان۔ (۱۔ ۵۱۔ مذ) گائے کو خیریت کرنا۔
 گھونگوتی۔ (۱۔ ۵۱۔ مذ) ایک قسم کا پتھر جس کا کشتہ بنجار میں مفید ہوتا ہے
 اسے بڑا مال گھونگوتی بھی کہتے ہیں۔
 گھونگورس۔ (۱۔ ۵۱۔ مذ) دو دو (۲، ۳، ۴) بھوجی رستی۔
 گھونگوسالہ۔ گھونگوشالہ۔ (۱۔ ۵۱۔ مذ) گالوں کے پٹنے کی جگہ۔
 گھونگھاٹ۔ (۱۔ ۵۱۔ مذ) دریا یا تالاب کا وہ مقام جو موسیخوں کے پانی
 گھونگھکی (۱۔ ۵۱۔ مذ) ہاتھت وغیرہ کی وہ تھیلی جس میں ہندو لوگ مالا ڈال
 کر چیتے ہیں (۲) جال پہاڑ کی ایک گھونگھوں سے لگا نکلتی ہے۔
 گھونگھنیا۔ گھونگھنیا۔ (۱۔ ۵۱۔ مذ) گائے کے ذبح کرنے یا مارنے
 کا گناہ۔
 گھونگی۔ (دھن، ۵۱۔ صف ۱) گھونگی۔ (دھن، ۵۱۔ صف ۱) گھونگی۔ (دھن، ۵۱۔ صف ۱) گھونگی۔
 گھونگی بوجھوار کی اور رہی کھال کی کھال۔ (۱۱۔ صف ۱) گھونگی بوجھوار کی اور رہی کھال کی کھال۔
 گھونگی پتی۔ (۱۱۔ صف ۱) گھونگی پتی۔ (۱۱۔ صف ۱) گھونگی پتی۔ (۱۱۔ صف ۱) گھونگی پتی۔
 اعتبار۔ (۱۱۔ صف ۱) اعتبار۔ (۱۱۔ صف ۱) اعتبار۔ (۱۱۔ صف ۱) اعتبار۔ (۱۱۔ صف ۱) اعتبار۔
 گھونگی کرنا۔ (۱۱۔ صف ۱) گھونگی کرنا۔ (۱۱۔ صف ۱) گھونگی کرنا۔ (۱۱۔ صف ۱) گھونگی کرنا۔
 گھونگی کرنا۔ (۱۱۔ صف ۱) گھونگی کرنا۔ (۱۱۔ صف ۱) گھونگی کرنا۔ (۱۱۔ صف ۱) گھونگی کرنا۔
 گھونگی گزری۔ (۱۱۔ صف ۱) گھونگی گزری۔ (۱۱۔ صف ۱) گھونگی گزری۔ (۱۱۔ صف ۱) گھونگی گزری۔
 ہوتی۔ (۱۱۔ صف ۱) ہوتی۔ (۱۱۔ صف ۱) ہوتی۔ (۱۱۔ صف ۱) ہوتی۔ (۱۱۔ صف ۱) ہوتی۔
 گھونگی۔ (۱۱۔ صف ۱) گھونگی۔ (۱۱۔ صف ۱) گھونگی۔ (۱۱۔ صف ۱) گھونگی۔ (۱۱۔ صف ۱) گھونگی۔

یادشاہ وقت کا مرجانا۔
 گھی کہاں گیا گھوٹی میں۔ ۱۱۔ غش ایسا مال اپنے ہی عزیز و اقارب میں خرچ
 ہو یا ایسا نقصان ہو جس سے انہیں کو فائدہ پہنچے تو اس موقع پر بولتے ہیں۔ گویا ہمارا
 سال ہمارے ہی کام آیا۔
 گھی گھوٹی۔ ۱۱۔ محاورہ: شیر و شکر۔ نہایت گہرے دوست۔ گھلے۔
 گھی گھے چراغ جلا نا۔ ۱۱۔ محاورہ: مراد برائے پر مزار، دو گاہ یا مندر وغیرہ میں
 چراغوں میں تیل کی بجائے گھی کی روشنی کرنا یا گزارنا، نہایت خوشی منانا، اس قدر دولت
 مند ہونا کہ تیل کی بجائے گھی کے چراغ جلے۔
 گھی کے سے کھونٹ آتے ہیں۔ (۱۱۔ محاورہ) بہت گھی پڑا ہو ہے اور چیز نہایت
 لذیذ اور ذائقہ دار ہے۔
 گھی گھے کیسے کے پاس جا لگتا۔ ۱۱۔ محاورہ: کسی مالدار کے پاس رسائی

گھی کرنا گھی روکھی ہی بھاتی ہے۔ (۱۱۔ صف ۱) یہ قول اپنی مجبوری اور شرمندگی
 کو چھپانے کے موقع پر بولتے ہیں جیسے گھر کھلے ہیں۔
 گھی لگانا۔ ۱۱۔ محاورہ: نہیں رسک، سے گھی لگانا۔
 گھی والا۔ ۱۱۔ محاورہ: مرض نڈوس۔ گھی بیٹھے والا۔
 گھینا۔ (دھی، ۵۱۔ ۱۔ مذ) ایک قسم کی ترکاری۔ کدو۔
 گھینا لوری۔ (۱۱۔ صف ۱) ایک نرم دھاتی قسم کی لوری۔
 گھینا کدو۔ ۱۱۔ مذ) ایک قسم کا لہو کدو۔
 گھینا کس ہر ایک آلہ سے لے کر گڑا کر بدلیک کرتے ہیں۔
 گھینا۔ (دھن، ۵۱۔ ۱۔ صف ۱) ایک قسم کی لیس دار ترکاری جو جڑ کی
 قسم کی ہوتی ہے، آدھی۔
 گھیننا۔ (گھیننا، ۵۱۔ ۱۔ صف ۱) گھیننا۔ (گھیننا، ۵۱۔ ۱۔ صف ۱) گھیننا۔ (گھیننا، ۵۱۔ ۱۔ صف ۱) گھیننا۔
 گھینٹلا۔ (دھن، ۵۱۔ ۱۔ صف ۱) ایک قسم کا زنا نہ جوتا جو آگے سے بہت ملا ہوا
 ہوتا ہے۔ لمبی ٹوک کا جوتا۔
 گھیر۔ (۱۱۔ ۵۱۔ صف ۱) دھن۔ محیط۔ گھیرا۔ گردا۔ گھیرنا کا امر۔ چکر گھاڑو، حلقہ دار، احوال
 صحت، گھیر خداتی۔
 گھیر دار۔ (۱۱۔ صف ۱) فراخ کشادہ۔ ڈھیلے ڈھالا۔
 گھیر گھار کر لانا۔ (۱۱۔ محاورہ) چاروں طرف سے اکٹھا کر کے لانا۔ ہر طرف سے سمیٹ
 سما کر ایک جگہ لانا۔
 گھیرا۔ (۱۱۔ صف ۱) گردا۔ حلقہ دار، محیط۔ چکر۔ ہاڑو، پارلیوی
 حصار، فصیل، زم، نرقہ، محاصرہ۔
 گھیرا ڈالنا۔ (۱۱۔ محاورہ) محاصرہ کرنا۔ چاروں طرف سے گھیر لینا۔ حلقہ کر لینا۔
 گھیرنا۔ (دھن، ۵۱۔ ۱۔ صف ۱) محاصرہ کرنا، محاصرہ کرنا، محاصرہ کرنا، محاصرہ کرنا، محاصرہ کرنا،
 لگانا، (۱۱۔ صف ۱) لگانا، (۱۱۔ صف ۱) لگانا، (۱۱۔ صف ۱) لگانا، (۱۱۔ صف ۱) لگانا، (۱۱۔ صف ۱) لگانا،
 گھیرنی۔ (دھن، ۵۱۔ ۱۔ صف ۱) محاصرہ کرنا، محاصرہ کرنا، محاصرہ کرنا، محاصرہ کرنا،
 گھیرنی۔ (دھن، ۵۱۔ ۱۔ صف ۱) محاصرہ کرنا، محاصرہ کرنا، محاصرہ کرنا، محاصرہ کرنا،
 گھیرنا۔ (دھن، ۵۱۔ ۱۔ صف ۱) محاصرہ کرنا، محاصرہ کرنا، محاصرہ کرنا، محاصرہ کرنا،
 گھیرنا۔ (دھن، ۵۱۔ ۱۔ صف ۱) محاصرہ کرنا، محاصرہ کرنا، محاصرہ کرنا، محاصرہ کرنا،
 گھیرنا۔ (دھن، ۵۱۔ ۱۔ صف ۱) محاصرہ کرنا، محاصرہ کرنا، محاصرہ کرنا، محاصرہ کرنا،

گیارھواں - رگ - بارہ - ۵۶ - ۵۱ - صفت ۱ یازدہم - دسویں کے بعد کا گیارہ سے منسوب -

گیارھویں - رگ - بارہ - ۵۶ - ۵۱ - ۱ - ۱ - صفت ۱ دسویں کے بعد ۲۷ حضرت خوث الاعظم کی نیاز جو گیارھویں ذیح الاخر کو دی جاتی ہے۔ بعض لوگ ہر قمری مہینے کی گیارھویں تاریخ کو دیتے ہیں۔

گیارہست - ۱ - ۱ - صفت ۱ گیان بنی -
گیان - رگ - آن - ۱ - ۱ - ۱ - ۱ - صفت ۱ علم - دانش - ۲ - عقل - فہم - ۳ - علم الہی - علم معرفت - عرفان -

گیان چرچا - ۵۱ - ۱ - ۱ - ۱ - صفت ۱ علمی یا مذہبی ذکر اذکار - علمی یا مذہبی مباحثہ -
گیان چوسہ - ۵۱ - ۱ - ۱ - ۱ - صفت ۱ ایک قسم کی چوسہ جو کاغذ پر چھپی ہوئی ہوتی ہے اور پانچ نیاسات کوڑیوں سے تھیلی جاتی ہے۔

گیان دورانا - ۵۱ - ۵۱ - ۱ - ۱ - صفت ۱ بہت سوچ - بچار کرنا - سوچ میں ڈوب جانا۔
گیان دان - ۵۱ - ۵۱ - ۱ - ۱ - صفت ۱ عالم - فاضل - دو دان -

گیانی - رگ - آہنی - ۱ - ۱ - ۱ - ۱ - صفت ۱ عارون خدا شناس - عالم - فاضل -
گیانہ - رگ - یاہ - ۱ - ۱ - ۱ - ۱ - صفت ۱ اہری گھاس - خشک گھاس - کاہ -

گیسیر - رگ - بڑا - ۵۱ - ۱ - ۱ - ۱ - صفت ۱ ایک پرنسے کا نام -
گیبیرڈین - (Gabardine) - رگ - بڑا - ۱ - ۱ - ۱ - ۱ - صفت ۱ ایک قسم کی پارسی

گیپ - (Gap) - رگ - ۱ - ۱ - ۱ - ۱ - صفت ۱ دراز - تنگناں - روضہ - ۱۲ - خندق -
گھائی - رگ - ۱ - ۱ - ۱ - ۱ - صفت ۱ پہاڑ کے درمیان تنگ راستہ -

گیسا - رگ - یاہ - ۱ - ۱ - ۱ - ۱ - صفت ۱ ایک قسم کا پلاؤ -
گیسائی - رگ - یاہ - ۱ - ۱ - ۱ - ۱ - صفت ۱ ایک قسم کا بیچنے والا -

گیسیت - ۵۱ - ۱ - ۱ - ۱ - صفت ۱ ایک قسم کا بیج -
گیسیت گانا - ۱۱ - ۱ - ۱ - ۱ - صفت ۱ ایک قسم کا گانا -

گیسٹا - رگ - ۱ - ۱ - ۱ - ۱ - صفت ۱ راک - گیت - نغمہ - ۲ - سمجھ - ۳ - مباحثہ -
چرچا - ذکر اذکار - تذکرہ - ۳ - ہندوؤں کی ایک مذہبی کتاب جس میں کرشن جی کے اس دعا کو پیش کیا گیا ہے جو انہوں نے ارجن کو

سمجھانے کے لیے دیا تھا - ۳ - مقدس نغمہ -
گیتتی - رگ - ۱ - ۱ - ۱ - ۱ - صفت ۱ عالم کو پیدا کرنے والا - خلدے تعالیٰ -

گیتتی آرا - ۱ - ۱ - ۱ - ۱ - صفت ۱ جہاں کو آراستہ کرنے والا - نہایت خوبصورت کنیت -
بادشاہ - ۱ - ۱ - ۱ - ۱ - صفت ۱ ایک خوبصورت چھول جس کی خوشبو اس کے سوا کھانے کے

بعد بھی کستوری کی طرح رہتی ہے۔
گیتتی آفرین - ۱ - ۱ - ۱ - ۱ - صفت ۱ عالم کو پیدا کرنے والا - خلدے تعالیٰ -

گیتتی آفرین گیتتی فرور - ۱ - ۱ - ۱ - ۱ - صفت ۱ جہاں کو روشن کرنے والا - ۱۱ - ہوسٹ -
خورشید - آفتاب -

گیتتی بان - ۱ - ۱ - ۱ - ۱ - صفت ۱ دنیا کا محافظ - بہت اعلیم کا بادشاہ -
گیتتی فرورہ - ۱ - ۱ - ۱ - ۱ - صفت ۱ دنیا دار - ۲ - دنیا کا طالب - ۳ - بادشاہ - ۴ - پروردہ -

گیتتی فرورہ - ۱ - ۱ - ۱ - ۱ - صفت ۱ ایک قسم کا تار - ڈھولڈانا -
گیتتی نہا - ۱ - ۱ - ۱ - ۱ - صفت ۱ ایک قسم کا تار - بادشاہ -

گیتتی نور - ۱ - ۱ - ۱ - ۱ - صفت ۱ جہاں کی سر کرنے والا - بہت پھلنے پھرنے

گئے پچاسے روزے رسے ایک کم نہیں - ۱۶ - مثل - جب پہلا روزہ رکھ لیا تو باقی کے بھی رکھے برابر کھجور - ۱۲ - جب ایک مشکل کام کا کوئی حصہ کر لیا تو وہ آسان نظر آئے گا۔

گئے تھے روزے بخشوانے نماز گلے طہی گئے تھے نماز بخشوانے روزے گلے پڑے - ۱۶ - مثل - ایک کام سے ہند کر لیا - دوسرا کام اور سپرد ہو گیا - اٹلے تینے کے دینے پڑے۔

گئے گزریے - ۱ - ۱ - صفت ۱ بوجہ ناکارہ - بیکار - بے وقعت -
گئے گزریے زمانے میں - ۱۶ - مثل - بڑے وقت میں مفلسی میں تنگ دستی میں -

گئے وقت میں - ۱ - ۱ - تابع فعل - بڑے وقت میں - بد اقبالی کے زمانے میں -

گ۔ سی

گی - ۱ - ۱ - صفت ۱ مستقیم - گالی تائیت ۱۶ - صفت ۱ - اسم کیفیت - وہ لاحقہ جو ہائے معنی پر جمع ہونے والے کو دور کر کے "گی" کے بڑھانے سے اسم کیفیت بنا دیتا ہے۔ جیسے کشیدہ سے کشیدگی - سنجیدہ سے سنجیدگی وغیرہ۔

گے - ۱۲ - لاحقہ مستقبل "گا" کی جمع -
گیارہ - رگ - یاہ - ۵۱ - ۱ - ۱ - ۱ - صفت ۱ سابقہ گذشتہ - ۲ - چلا گیا - ۳ - گزرا جاتا رہا۔

گیارہ اور آیا - ۱۶ - صفت ۱ فوراً واپس آنے کے لیے بولتے ہیں۔
گیارہ پیتا - گزرا ہوا - پچھلا ہوا - نکما - ناکارہ - ناقابل استعمال - بیکار - ۳ -
خراب - بڑا -

گیارہ گزرا - ۱۶ - صفت ۱ گزرا ہوا - رفتہ - گذشتہ - ۲ - معدوم - مفقود - ۳ - ناکارہ - نکما - بیکار - ۴ - خراب - بڑا - ۵ - کم حوصلہ - بزدل - ۶ - نہایت کمزور -

ناقابل - ۷ - بے حیثیت - ناچیز - بے قدر - ۸ - بے شرم - بے حیا - بے غیرت - ۹ - نالائق - بد چلن - ۱۰ - مفلس - غریب - ۱۱ - ناقابل قبول -

۱۱ - شاہ شدہ - ۱۲ - ماضی کسی کام کا نہ رہنا۔
گیارہ آیا - ۱۶ - صفت ۱ گزرا اور پیتا ہوا جو گزرنے کا ہو۔

گیارہ وقت - ۱۱ - تابع فعل - وہ وقت جو گزرنے کا ہو - ۲ - خوشی سے گزرا ہوا زمانہ -

گیارہ وقت پھر ہاتھ آتا نہیں - ۱۶ - مثل - گزرا ہوا وقت دوبارہ نہیں مل سکتا جو موقع ہاتھ سے نکل جائے۔ پھر میسر نہیں آتا - فرصت کو غنیمت سمجھو۔

گیارہ بھج - رگ - یاہ - ۵۱ - ۱ - ۱ - ۱ - صفت ۱ حیوان کا عمل - گامبھ -
گیارہ ڈالنا - ۱۱ - صفت ۱ حمل کرنا - ۲ - خوف کے مارے وقت سے پہلے بچو جن

دینا - ۳ - بے حد ڈرنا۔
گیارہ بھج - گیا بھجی - رگ - یاہ - ۵۱ - ۱ - ۱ - ۱ - صفت ۱ اپنی والدی حاملہ پر لفظ ظہن حیوانوں کے لیے آتا ہے،

گیارہ - رگ - یاہ - ۵۱ - ۵۱ - ۱ - ۱ - صفت ۱ ایک اور دس (۱۱)۔

والا (نورید) نوریدین سے مستحق ہے بمعنی لپیٹنا۔

گیٹ (Gate) - ایک (۱) دروازہ۔ پھیلاک (۱۲)۔ ۵۔ راستہ
۳۱ دو پہاڑوں کے درمیان کا تنگ راستہ۔

گیٹ اپ (Get Up) - اُٹھنا، اُٹھنا (۱)۔ اُٹھنا (۱)۔ اندازِ ذبح
طرز (۲)۔ کتاب کی کھائی چھائی وغیرہ۔

گیٹس - رگتے، رگتے، ہند آفریزی کا رگتے (Garter) سے (۱)۔ مذم
موسے پر بے یا چمبے کی پٹی جسے سوار لوگ پنڈلیوں پر بٹنوں سے کس لیتے
ہیں (۲)۔ رگتے یا سوت کا لیتہ جو موزوں پر چڑھا لیا جاتا ہے۔ تاکہ وہ
نیچے کو نہ آئیں۔

گیج (Gauge) - ایک (۱)۔ مذم ناپ۔ پیمانہ۔ گنجائش۔
ریگیدرا۔ ریگیدرا (۱)۔ صفت (۱)۔ صفت (۱)۔ سادہ لوح (۲)۔ بھلا
بدناتی۔

گیڈر (گی) - ڈر (۱)۔ ۵۔ ایک جگلی جانور جو کتے سے ذرا چھوٹا اور لوٹری
سے ذرا بڑا ہوتا ہے، شغال، بزدل۔

گیڈر اوروں کو شگون بتانے - آپ اپنی گردن کتوں
سے تڑوانے (۱)۔ شل اپنی خبر ہیں۔ اوروں کو مشورہ دیتے
بھرتے ہیں۔

گیڈر لولنا (۱)۔ ۱۱۔ محاورہ (۲)۔ گیدڑوں کا جھونکا (۲)۔ بخونگی کی علامت ظاہر کرنا۔
۳۱۔ اُٹھنا۔ ویران بنانا۔ غر بار ہونا۔

گیڈر بھسکی - گیدڑ بھسکی (۱)۔ (۱)۔ گیدڑ کی طرح غر کرکھ کر کے ڈرانا (۲)۔
دکھانے کی دھکیلے اندر دھکیلے نکالنا۔

گیڈر بھسکی دکھانا (۱)۔ محاورہ (۲)۔ جھوٹ موٹ کا ڈرانا۔
گیڈر کی جمع داری اٹھی ہوئی ہے۔ (۱)۔ شل (۲)۔ زبردستی کی
حکومت ہے۔

گیڈر کی کوٹنی اٹے تو گاؤں کو بھاگا جائے۔ (۱)۔ شل (۲)۔ جب بڑے دن
آتے ہیں تو تیریں بھی اٹھی سوجتی ہیں۔

گیڈر کے کہنے سے بیر نہیں پتے۔ (۱)۔ شل (۲)۔ امیدیں حسب مراد
پوری نہیں ہوتیں۔

گیڈر ہٹنا - رگتہ (۱)۔ ۵۔ چسکا پڑ جانا۔ جریں بوجانا۔
گیڈری - رگتی (۱)۔ ۵۔ صفت (۲)۔ بے عزت۔ بے حیثیت (۲)۔ مجازاً (۳)۔ بھڑا۔

دیوٹ (۲)۔ نامزد۔ بھڑا (۱)۔ بزدل (۲)۔ (۱)۔ نادان۔ بے وقوف۔ گید
سے مشتبہ ہے۔ جس کے معنی جیل کے ہیں۔ مادر لگوں کا خیال ہے کہ وہ چھ
ہینے نرا در چھہ بیٹے مادہ رہتی ہے۔

گیڈری خر (۱)۔ ۵۔ مذم بہت بڑا بے وقوف۔ لاکھ گدا۔
ریگیر (۱)۔ لاقہ (۲)۔ رگتے مصدر سے صیغہ امر سے جو اسم کے بعد آکرے
اسم نامل بنا دیتا ہے اور پکڑنے والے کے معنی دیتا ہے۔ جیسے دل گیر
عالم گیر وغیرہ۔

گیگرا ج (Garage) - ایک (۱)۔ مذم موٹر گاڑ (۲)۔ گدام۔
گیرو دار (۱)۔ ۱۔ ۱۔ مذم (۲)۔ پکڑ دھکڑ (۲)۔ جنگ۔ ویدل۔ لڑائی (۳)۔ حکومت
(۴)۔ شان و شوکت۔

گیگرا جی - رگتی (۱)۔ ۱۔ ۱۔ مذم (۲)۔ پکڑ دھکڑ (۲)۔ گدام۔
گیگرا جی - رگتی (۱)۔ ۱۔ ۱۔ مذم (۲)۔ پکڑ دھکڑ (۲)۔ گدام۔

گیگرو - رگتے (۱)۔ ۱۔ ۱۔ مذم (۲)۔ پکڑ دھکڑ (۲)۔ گدام۔
گیگرو - رگتے (۱)۔ ۱۔ ۱۔ مذم (۲)۔ پکڑ دھکڑ (۲)۔ گدام۔

گیگرو - رگتے (۱)۔ ۱۔ ۱۔ مذم (۲)۔ پکڑ دھکڑ (۲)۔ گدام۔
گیگرو - رگتے (۱)۔ ۱۔ ۱۔ مذم (۲)۔ پکڑ دھکڑ (۲)۔ گدام۔

گیگرو - رگتے (۱)۔ ۱۔ ۱۔ مذم (۲)۔ پکڑ دھکڑ (۲)۔ گدام۔
گیگرو - رگتے (۱)۔ ۱۔ ۱۔ مذم (۲)۔ پکڑ دھکڑ (۲)۔ گدام۔

گیگرو - رگتے (۱)۔ ۱۔ ۱۔ مذم (۲)۔ پکڑ دھکڑ (۲)۔ گدام۔
گیگرو - رگتے (۱)۔ ۱۔ ۱۔ مذم (۲)۔ پکڑ دھکڑ (۲)۔ گدام۔

گیگرو - رگتے (۱)۔ ۱۔ ۱۔ مذم (۲)۔ پکڑ دھکڑ (۲)۔ گدام۔
گیگرو - رگتے (۱)۔ ۱۔ ۱۔ مذم (۲)۔ پکڑ دھکڑ (۲)۔ گدام۔

گیگرو - رگتے (۱)۔ ۱۔ ۱۔ مذم (۲)۔ پکڑ دھکڑ (۲)۔ گدام۔
گیگرو - رگتے (۱)۔ ۱۔ ۱۔ مذم (۲)۔ پکڑ دھکڑ (۲)۔ گدام۔

گیگرو - رگتے (۱)۔ ۱۔ ۱۔ مذم (۲)۔ پکڑ دھکڑ (۲)۔ گدام۔
گیگرو - رگتے (۱)۔ ۱۔ ۱۔ مذم (۲)۔ پکڑ دھکڑ (۲)۔ گدام۔

گیگرو - رگتے (۱)۔ ۱۔ ۱۔ مذم (۲)۔ پکڑ دھکڑ (۲)۔ گدام۔
گیگرو - رگتے (۱)۔ ۱۔ ۱۔ مذم (۲)۔ پکڑ دھکڑ (۲)۔ گدام۔

گیگرو - رگتے (۱)۔ ۱۔ ۱۔ مذم (۲)۔ پکڑ دھکڑ (۲)۔ گدام۔
گیگرو - رگتے (۱)۔ ۱۔ ۱۔ مذم (۲)۔ پکڑ دھکڑ (۲)۔ گدام۔

گیگرو - رگتے (۱)۔ ۱۔ ۱۔ مذم (۲)۔ پکڑ دھکڑ (۲)۔ گدام۔
گیگرو - رگتے (۱)۔ ۱۔ ۱۔ مذم (۲)۔ پکڑ دھکڑ (۲)۔ گدام۔

گیگرو - رگتے (۱)۔ ۱۔ ۱۔ مذم (۲)۔ پکڑ دھکڑ (۲)۔ گدام۔
گیگرو - رگتے (۱)۔ ۱۔ ۱۔ مذم (۲)۔ پکڑ دھکڑ (۲)۔ گدام۔

گیگرو - رگتے (۱)۔ ۱۔ ۱۔ مذم (۲)۔ پکڑ دھکڑ (۲)۔ گدام۔
گیگرو - رگتے (۱)۔ ۱۔ ۱۔ مذم (۲)۔ پکڑ دھکڑ (۲)۔ گدام۔

گیگرو - رگتے (۱)۔ ۱۔ ۱۔ مذم (۲)۔ پکڑ دھکڑ (۲)۔ گدام۔
گیگرو - رگتے (۱)۔ ۱۔ ۱۔ مذم (۲)۔ پکڑ دھکڑ (۲)۔ گدام۔

گیگرو - رگتے (۱)۔ ۱۔ ۱۔ مذم (۲)۔ پکڑ دھکڑ (۲)۔ گدام۔
گیگرو - رگتے (۱)۔ ۱۔ ۱۔ مذم (۲)۔ پکڑ دھکڑ (۲)۔ گدام۔

گیگرو - رگتے (۱)۔ ۱۔ ۱۔ مذم (۲)۔ پکڑ دھکڑ (۲)۔ گدام۔
گیگرو - رگتے (۱)۔ ۱۔ ۱۔ مذم (۲)۔ پکڑ دھکڑ (۲)۔ گدام۔

گیگرو - رگتے (۱)۔ ۱۔ ۱۔ مذم (۲)۔ پکڑ دھکڑ (۲)۔ گدام۔
گیگرو - رگتے (۱)۔ ۱۔ ۱۔ مذم (۲)۔ پکڑ دھکڑ (۲)۔ گدام۔

گیگرو - رگتے (۱)۔ ۱۔ ۱۔ مذم (۲)۔ پکڑ دھکڑ (۲)۔ گدام۔
گیگرو - رگتے (۱)۔ ۱۔ ۱۔ مذم (۲)۔ پکڑ دھکڑ (۲)۔ گدام۔

گیگرو - رگتے (۱)۔ ۱۔ ۱۔ مذم (۲)۔ پکڑ دھکڑ (۲)۔ گدام۔
گیگرو - رگتے (۱)۔ ۱۔ ۱۔ مذم (۲)۔ پکڑ دھکڑ (۲)۔ گدام۔

گیگرو - رگتے (۱)۔ ۱۔ ۱۔ مذم (۲)۔ پکڑ دھکڑ (۲)۔ گدام۔
گیگرو - رگتے (۱)۔ ۱۔ ۱۔ مذم (۲)۔ پکڑ دھکڑ (۲)۔ گدام۔

گیگینا۔ گیگینج، نا، (ہ) بھس، ہاتھ سے نل دل ڈالنا۔
 گیگیند۔ (۱-۵۶) مذ/ ہاتھی۔
 گیگیند۔ (۱-۵۶) مذ/ مٹا، چمڑے سے کپڑے یا بڑ کا وہ گولا جس سے ٹکے
 کھینچتے ہیں۔
 گیگیند بلا۔ (۱-۵۶) مذ/ ڈپٹے اور گیند کا کھیل۔ کرکٹ۔
 گیگیندا۔ (۱-۵۶) مذ/ گل صدر پرگ۔ ایک قسم کا زرد پھول اور
 اس کا پودا۔

گیگیندوا۔ (۱-۵۶) مذ/ (۱) تکیہ (۲) بیٹ میں پیدا ہونے
 والا ایک کپڑا۔
 گیگینڈا۔ (۱-۵۶) مذ/ بھینٹے کے برابر ایک بڑا شہنشاہ اور جو یا یہ
 جس کی ناک پر ایک سینک ہوتا ہے۔ گھال اتنی سخت اور مضبوط ہوتی
 ہے کہ اس کی ڈھالیں بنتے ہیں۔
 گیگینڈی۔ (۱-۵۶) مذ/ سوت کا لچھا۔ سوت کی انٹی (۲) سانپ کا
 حلقہ بنا کر بیٹھا۔ کنڈل۔
 گیگنگ۔ (۱-۵۶) مذ/ جھٹا، ٹولی۔ طائفہ۔ گروہ (۲)
 مجرموں کا گروہ (۳) وہ آلات جن کا سلسلہ ایک دوسرے سے ملا ہو
 اور ساتھ ساتھ کام کرتے ہوں۔

گیگنگٹا۔ (۱-۵۶) مذ/ کپڑا۔ سرطان۔
 گیگنگٹلا۔ (۱-۵۶) مذ/ بے وقوف۔ سادہ لوح۔
 گیگیتی۔ (۱-۵۶) مذ/ جھپٹے قدم کی موٹی گائے۔
 گیگیمان۔ (۱-۵۶) مذ/ جہاں۔ زمانہ۔
 گیگیمان رخدا، خدیو۔ جہاں کا بادشاہ۔ خداوند۔
 گیگیہوں۔ (۱-۵۶) مذ/ گندم۔ ایک قوت بخش اناج۔
 گیگہوں کی بال نہیں دیکھی ۱۶۔ مثل/ نہایت ناخبرہ کار اور نادان ہے
 گھر سے باہر بالکل قدم نہیں رکھا۔ یہ بھی معلوم نہیں کہ گیگہوں کا پیدا اور اس
 کی بال کیسی ہوتی ہے۔
 گیگہوں کی روٹی کو فولادی پیٹ چاہیے ۱۷۔ مثل/ نعمت کھا کر چپانے کو بھی
 حوصلہ چاہیے۔ دولت یا گرفتار رہنے کا مادہ چاہیے۔

گیگہوں کے ساتھ گھن بھی پس چاہیے۔ امیروں کے ساتھ غریبوں
 کی بھی شامت آجاتی ہے۔ گناہ گار کے ساتھ اس کا بے گناہ ساتھی
 بھی گرفتار کیا جوجاتا ہے۔ بڑے کے ساتھ چھابھی دھر لیا
 جاتا ہے۔

گیگیلا۔ (۱-۵۶) مذ/ بھنگا ہوا۔ نم آلود۔ تر۔
 گیگیلا سٹیلا۔ (۱-۵۶) مذ/ سب سے نم۔
 گیگیلا ہونا۔ (۱-۵۶) مذ/ مرکب، بھنگا۔ تر ہونا۔
 گیگیلانی۔ (۱-۵۶) مذ/ عراق کے ایک صوبہ یا نواح بغداد کے
 ایک گاؤں گیگیان سے منسوب۔ گیگیان کا رہنے والا۔ سبب غوث الاعظم
 کا لقب کیونکہ گیگیان میں پیدا ہوئے عربی والوں نے اس لفظ کو جیگیانی بنا
 لیا ہے۔

گیگیلری۔ (Gallery) (۱-۵۶) مذ/ برقی، ایک۔ (۱) مٹا، والا۔
 برآمدہ (۲) کمرے کے اندر کا چھو۔ شہ نشین (۳) تھیلر، سب سے اونچی
 نشست (۴) گیگیلری میں بیٹھنے والے لوگ (۵) ادنیٰ طبقہ کے حاضرین یا نظارین
 (۶) تصویر خانہ۔ رنگ عمل۔
 گیگیلا۔ (۱-۵۶) مذ/ پیچھے خانہ کا وہ پتہ جسے عورت اپنے ساتھ دوسرے
 خانہ کے ہاں لاتی ہو۔
 گیگیلن۔ (۱-۵۶) مذ/ (۱) مٹا، اسپال اور ترقی اشیاء پانے
 کا پیمانہ۔ جو دوسرے ڈس چھٹانک کے برابر ہوتا ہے
 گیگیلی۔ (۱-۵۶) مذ/ مٹا، مٹے کی کافی ہونی گول کلاسی جس سے شہتیر نکلتے ہیں۔
 (۲) پوتوں عورت (۳) (۱-۵۶) مذ/ مٹا، مٹے کی کافی ہونی گول کلاسی جس سے شہتیر نکلتے ہیں۔

گیگیلی۔ (Galley) (۱-۵۶) مذ/ مٹا، مٹے کی کافی ہونی گول کلاسی جس سے شہتیر نکلتے ہیں۔
 خانے کی اصطلاح میں کڑھی کا وہ خانہ جس میں کمپوز شدہ ٹائپ کی
 قطاریں لگی ہوں۔
 گیگیلی۔ (۱-۵۶) مذ/ مٹا، مٹے کی کافی ہونی گول کلاسی جس سے شہتیر نکلتے ہیں۔
 گیگیلی۔ (۱-۵۶) مذ/ مٹا، مٹے کی کافی ہونی گول کلاسی جس سے شہتیر نکلتے ہیں۔
 گیگیلی۔ (۱-۵۶) مذ/ مٹا، مٹے کی کافی ہونی گول کلاسی جس سے شہتیر نکلتے ہیں۔
 گیگیلی۔ (۱-۵۶) مذ/ مٹا، مٹے کی کافی ہونی گول کلاسی جس سے شہتیر نکلتے ہیں۔

گیگیم۔ (Game) (۱-۵۶) مذ/ مٹا، مٹے کی کافی ہونی گول کلاسی جس سے شہتیر نکلتے ہیں۔
 (۳) کسی کھیل کا پورا سامان، دم، دل، کلی۔ مسخر (۵) سیر۔ نفع۔
 (۶) تماشا۔ سوانگ (۷) شکار (۸) شکار کے جانور (۹) کام۔
 منصوبہ۔ ہم۔

گیگین۔ (۱-۵۶) مذ/ مٹا، مٹے کی کافی ہونی گول کلاسی جس سے شہتیر نکلتے ہیں۔
 اور بھرا ہوا کے معنی دیتا ہے۔ جیسے گلین۔ اندر گین، والا، سرگین، شرگین
 گیگینا۔ (۱-۵۶) مذ/ مٹا، مٹے کی کافی ہونی گول کلاسی جس سے شہتیر نکلتے ہیں۔
 گیگینتی۔ (۱-۵۶) مذ/ مٹا، مٹے کی کافی ہونی گول کلاسی جس سے شہتیر نکلتے ہیں۔
 اوتار۔ کدال۔

ل

ل - لام - (ع - مذ) اردو کا تیسواں، فارسی کا ستائیسواں، عربی کا تیسواں اور ہندی کا اٹھایکواں حساب ابجد میں اس کے تیس عدد مانے گئے ہیں۔ یہ حرف اردو مصدر کو متعدی بنا لیتا ہے جیسے جینا سے جلانا، پینا سے پلانا۔ کبھی متعدی مصدر میں تاکید کی خصوصیت پیدا کرتا ہے جیسے دکھنا سے دکھلانا، بنانا سے بتلانا۔ کبھی الفاظ کے آخر میں آنے سے مصدریت کا فائدہ دیتا ہے جیسے دیکھ جہاں، چال ڈھال۔ کبھی نسبت کے واسطے آتا ہے جیسے بوجھل۔ عربی میں کلمہ کی ابتدا میں آکر تیس کے معنی دیتا ہے جیسے بلشہ۔ لفظ شوال کا مخفف بھی ہے۔ شسی حرف ہے، اس سے پہلے ال لگایا جائے تو پڑھا نہیں جائے گا البتہ دوسرے لام کو مشدّد کر دے گا جیسے التلطیف۔

ل - ۱

لا آئی - (ع - مذ) کوئی جمع۔

لا - (۱ - فعل) لانا مصدر کا صیغہ امر۔

لا - (ع - کلمہ نعتی) بغیر - بنا - نہیں - نا (۲) الجبر میں مقدار جموں نامعلوم۔

لا ابالی - (ع - ۱ - ۵ - ف) میں پرواہ نہیں کرتا (۱) نذر - دیہ (۲) بے فکر۔

بے پرواہ - (۲) لامزہب - زرد مشرب (۳) شوخ - بے شرم۔

لا ابالی سن - (۱ - مذ) بے پرواہی - بے فکری - شوخی۔

لا ابالی کارخانہ - (ع - ۱ - ف - مذ) نہایت پرانتظامی۔

لا احمصی - (ع - متکلمہ) میں احاطہ نہیں کر سکتا۔ ایک حدیث نبوی

کی طرف اشارہ ہے جس کے معنی ہیں (اے خدا) میں تیری صفات

کا شمار نہیں کر سکتا۔ تجھ میں وہ سب موجود ہیں جو تو نے آپ اپنی

نسبت بیان فرمائی ہیں۔

لا اذری - (ع - کلمہ انکار) لا انعم - مجھے معلوم نہیں۔

لا اذریا - (ع - صفت) تشکیک - وہ شخص جسے خدا کے وجود اور

ہر چیز کے بارے میں شبہ ہو۔

لا اذریت - (ع - ۱ - مٹ) تشکیک کا نظریہ کہ ہم خدا اور کسی چیز کے

بارے میں یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتے۔

لا الہ - (ع - تابع فعل) لا الہ الا اللہ کا مخفف (۲) معاذ اللہ۔

تو یہ ہے۔

لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ - (کلمہ طیب) خدا کے سوا کوئی

پرستش کے قابل نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول

ہیں۔

لا بد - (ع - تابع فعل) (۱) بے شک - یقیناً - قطعی (۲) مجبوراً۔

لا بگری - (ع - صفت) لازمی - ضروری - یقینی۔

لا پتیا - (۱ - صفت) بے پتیا - وہ جس کا پتہ نہ ہو - کم - غائب۔

لا پرواہ - (ع - ۱ - مٹ) بے پرواہ۔

لا پروائی - (ع - ۱ - ف - مٹ) (۱) بے پروائی - غفلت - (۲)

بے خونی۔

لا تخفی ولا تعد - (ع - صفت) لا تعداد - بے حساب - بے شمار۔

آن گنت۔

لا تعداد - (ع - صفت) بے حساب - بے شمار۔

لا ثانی - (ع - صفت) بے مثل - بے نظیر - یگانہ - یکتا - فرد۔

لا جرم - (ع - صفت) بغیر گھونٹ کے ایک ہی سانس میں پی جانا۔

لا جرم - (ع - تابع فعل) (۱) بے شک - یقیناً (۲) مجبوراً۔

لا جواب - (ع - صفت) (۱) خاموش - چپ (۲) مغلوب - عاجز (۳)

چھوٹا (۴) بے نظیر بے مثل - جس کا جواب نہ ہو۔

لا جواب کر دینا - (۱ - محاورہ) ہر اوپنا جواب نہ بننے دینا - تھکا دینا۔

بند کر دینا۔

لاچار - (۱ - صفت) (۱) ناچار - لاعلاج (۲) محتاج - غریب - مفلس۔

(۳) بے بس - معذور (۴) ڈاکر - مجبور ہو کر تھک کر - (صحیح نام)

لاچار کرنا - (۱ - محاورہ) (۱) مجبور کرنا - بے بس کرنا - (۲) اپنا بچ کرنا۔

ناکارہ کرنا (۳) مفلس بنانا - تنگ دست کر دینا۔

لاچارگی - (۱ - صفت) (۱) ناچاری - مجبوری (۲) محتاجی - غریبی - مفلسی۔

لاچار ہونا - (۱ - محاورہ) (۱) لاعلاج ہونا (۲) مجبور ہونا (۳) عاجز ہونا۔

ڈارنا - تھکنا (۴) محتاج ہونا - (۵) مفلس اور تنگ دست ہونا۔

لاچاروی - (۱) ناچاروی (صحیح) مجبوری (۲) عاجزی - (۳) محتاجی - غریبی -

مفلسی - معیبت۔

لاچاروی پرست سے بھاری - (۱ - مثل) در ماندگی پہاڑ سے بھی

زیادہ بھاری ہے۔

لا حاصل - (ع - صفت) بے فائدہ - فضول - نکتا - بے کار - بے

نتیجہ۔

لا حل - (ع - صفت) جو حل نہ ہو سکے - مشکل - دشوار - کٹھن۔

دقیق۔

لا حول - (ع - کلمہ نفرت) اظہار نفرت و حقارت کلمہ۔

(۲) شیطان کے بھگانے اور بھوت پرست دفع کرنے

کا کلمہ۔

لا حول یجیبنا۔ (۱- محاورہ) لعنت مجھ پر۔ نفرت ظاہر کرنا۔
 لا حول پریشان۔ (۱- محاورہ) شیطان یا جھوٹ پر سیت بھگانے کیلئے
 لا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھنا۔
 لا حول ولا قوۃ۔ (ع- کلمہ نفرت) انہما نفرت ویزاری کے موقع پر
 بولتے ہیں۔
 لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ (ع- کلمہ پناہ) کسی کو کوئی قدرت
 طاقت حاصل نہیں، لیکن خدائے بزرگ و بلند کو سب کچھ حاصل ہے۔
 لاخراج۔ (ع- صفت) وہ زمین جس پر سرکاری محصول نہ ہو۔ معانی۔ وہ
 زمین جس کا مالیہ نہ دینا پڑے۔
 لاخراج دار۔ (ع- ف- صفت) وہ زمیندار جس کو سرکاری محصول نہ دینا
 پڑے۔
 لا دعویٰ۔ (ع- ا- صفت- مذ) دست برداری۔ فارغ نظلی بے تعلق ہونے
 کی سند۔
 لا دعویٰ دینا (لکھنا) (محاورہ) کسمپرسی یا دعویٰ کو چھوڑ دینا۔
 لا دوا۔ لا علاج۔ جس کی دوا نہ ہو سکے۔
 لا ریب۔ (ع- تابع فعل) بلاشبہ۔ یقیناً۔ بیشک۔ یقیناً۔
 لا زوال۔ (ع- صفت) جس کو زوال نہ ہو۔ غیر فانی۔ ازلی۔ قدیم۔
 لا سخن۔ (ع- ف- صفت) خاموش۔ بے زبان (۲) [مذ] بزرگانی۔
 گستاخی۔
 لا شریک۔ (ع- صفت) خدا۔ جس کا کوئی شریک نہیں۔
 لا شئے۔ (ع- صفت) بیچ۔ بے وقعت۔ معدوم۔
 لا طائل۔ (ع- ف- صفت) بے فائدہ۔ بے سود۔ بیکار۔
 لا علاج۔ (ع- ا- صفت) (۱) جس کا علاج نہ ہو سکے۔ لا دوا (۲) لاچار۔
 ناچار۔
 لا علم۔ (ع- صفت) بے علم۔ جسے معلوم نہ ہو۔ کسی بات کا نہ جاننے والا۔
 ناواقف۔ انجان۔
 لا علمی۔ (ع- ف- صفت) بے خبری۔ کسی بات کا علم نہ ہونا۔
 لا عرض۔ (ع- صفت) بے عرض۔
 لا فانی۔ (ع- صفت) جس کو فنا نہ ہو۔ ہمیشہ رہنے والا۔
 لا فقی الا لعلی لا یقیف الا ذوالفقار۔ (ع- مقولہ) حضرت علیؑ کے
 سوا کوئی بہادر نہیں اور ذوالفقار کے سوا کسی کوئی تلوار نہیں۔
 لا کلام۔ (ع- صفت) (۱) وہ کلام جس میں کچھ جائے گفتگو نہ ہو۔ (۲)
 بلاشبہ۔ یقیناً۔ ضرور۔ البتہ۔
 لا کلامی۔ (ع- ف- صفت) خاموشی۔ چپ رہنا (۲) [صفت] بے شبہ۔
 یقیناً۔
 لا مٹنا ہی۔ (ع- صفت) غیر محو۔ جس کی کوئی حد نہ ہو۔
 لا محالہ۔ (ع- تابع فعل) (۱) ناچار (۲) بالضرور۔ یقیناً۔
 لا مذہب۔ (ع- صفت) جس کا کوئی مذہب نہ ہو۔ بے دین۔ دہرت۔
 لا مذہبیت (دینیت) (ع- ا- مذ) [مذ] مذہب سے کوئی تعلق نہ ہونا۔

(۲) لا مذہب کا اسم کیفیت (انگ) (Secularism)
 لا مرکزیت۔ جس کا کوئی مرکز نہ ہو (۲) مرکزی حکومت کو توڑنا۔ (۳) نیکی
 کی ایک اصطلاح۔
 لا مکان۔ (ع- ا- مذ) وہ مکان جس میں مکانیت کی تخصیص نہ ہو۔ عالم
 قدس۔ خدائے تعالیٰ کی تعریف کا کلمہ۔
 لا مکان پروانہ (سیر) [ع- ف- صفت] عالم بالانگ سچنے والا۔
 مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔
 لا وارث۔ (ع- صفت) وہ مال یا شخص جس کا کوئی وارث نہ ہو۔ وہ چیز
 جس کا کوئی مالک یا حقدار نہ ہو۔
 لا وارثی۔ (ع- صفت) (مذ) وہ شخص جس کا کوئی مالک یا حقدار نہ ہو۔
 لا اولاد۔ (ع- صفت) بے اولاد۔ جس کے کوئی اولاد نہ ہو۔
 لا اولاد۔ (ع- تابع فعل) نہیں۔ ہاں۔ آری۔ بے۔
 لا اہمیت۔ (ع- صفت) تعترت میں مقامات کا وہ درجہ جہاں سالک
 کو فنا فی اللہ کا مقام حاصل ہوتا ہے۔
 لا ایگزیز۔ (ع- صفت) ناجائز۔ جائز نہیں۔
 لا ایجنسی۔ (ع- صفت) بے حد۔ بے شمار۔
 لا ایزال۔ (ع- صفت) ہمیشہ رہنے والا۔ بے زوال۔ قدیم۔ دائمی۔
 اللہ تعالیٰ کی صفت۔
 لا یغفل۔ (ع- صفت) بے وقوف۔ نادان۔
 لا یعلم۔ (ع- صفت) جاہل۔ بے علم۔
 لا یقینی۔ (ع- صفت) بیوقوف۔ لغو۔ بے فائدہ۔ بے نتیجہ۔ فضول۔
 لا حاصل۔
 لا یقوت۔ (ع- صفت) (۱) نہ مرنے والا۔ غیر فانی (۲) وہ عورت جو صرف
 زندگی قائم رکھنے کے لیے گھٹتی ہو۔ (وقت لا یقوت)
 لا یقینی۔ (ع- صفت) نامناسب۔ جو لائق نہ ہو۔
 لا یقین۔ (ع- صفت) جو عمل نہ ہو سکے۔ مشکل۔ پیچیدہ۔
 لا یقینت۔ (ع- صفت) جہاں نہ ہونے والا۔
 لا۔ (Law) [انگ- ا- مذ] قانون۔ ضابطہ۔ قاعدہ۔
 لا اب۔ (ع- ا- مذ) فائدہ۔
 لا اید۔ (ع- ا- مذ) [مذ] (۱) درخواست۔ خواہش (۲) دُعا (۳) طنز
 (۴) مذاق (۵) خوشامد۔
 لا بگر۔ (ع- ف- صفت) چالپوسی کرنے والا۔ خوشامدی۔
 لا بھر۔ (ع- ا- مذ) (۱) فائدہ۔ نفع (۲) حصول تحصیل۔ (۳) بالائی آمدنی۔
 رشوت (۴) نجوم کا گیارہواں گھر۔ (۵) حرص۔ طمع۔ لالچ۔ بوجھ۔
 لا بئی۔ (Lobby) [انگ- ا- مذ] پارلیمنٹ یا اسمبلی کا بڑا گروہ
 جہاں ممبر حضرات ملاقاتیوں سے ملتے ہیں۔
 لا ت۔ (ع- ا- مذ) زمانہ جاہلیت میں عربوں کا ایک دیوتا جس کی
 پرستش کی جاتی تھی۔ چاند کی دیوی۔
 لا ت۔ (ع- ا- مذ) (۱) پادشہ کی ضرب۔ ٹھوکر (۲) لت۔ کد۔

لااج - (Lodge) (لاجگ)۔ مٹ [مکان۔ منزل عمارت۔
 لاج - ۱۔ مٹ (۱۱)۔ شرم۔ حیا۔ عزت (۱۲)۔ آبرو۔
 لاج آنا۔ لاج لگنا۔ (۱۳)۔ محاورہ (۱۴)۔ شرم آنا۔
 لاج رکھنا۔ (۱۵)۔ محاورہ (۱۶)۔ آبرو نہ بچانے دینا۔ عزت نہ بچانا۔ شرم رکھنا۔
 لاج سے مرنے۔ لاجوں مرنے۔ (۱۷)۔ محاورہ (۱۸)۔ بہت زیادہ شرمسار ہونا۔ شرم
 کے مارے زمین میں گر جانا۔
 لاج کرنا۔ (۱۹)۔ مٹ کرنا۔
 لاج کھانا۔ (۲۰)۔ محاورہ (۲۱)۔ شرم کھانا یا آنا۔
 لاج کھونا۔ (۲۲)۔ محاورہ [۲۳]۔ شرم ہو جانا۔ بے حیا ہو جانا۔
 لاج کی آنکھ جھانسنے سے بھاری۔ (۲۴)۔ مٹ (۲۵)۔ عزت اور شرم کے مارے
 بدل چلی نگرنا اور نقصان اٹھانا۔
 لاج بجانا۔ (۲۶)۔ محاورہ (۲۷)۔ شرمنا۔
لاچنا۔ (لاچ نا)۔ (۲۸)۔ مٹ کرنا۔
لاچوڑو۔ (لاچ۔ وڑو)۔ (۲۹)۔ مٹ (۳۰)۔ نیلے رنگ کا ایک چمکدار پتھر۔
 (۳۱)۔ نیلا رنگ۔
لاچوڑوی۔ (لاچ۔ وڑو)۔ (۳۲)۔ مٹ (۳۳)۔ لاجوڑو کے رنگ کا گہرا
 نیلا۔
لاجوتی۔ (لاج۔ وتی)۔ (۳۴)۔ مٹ (۳۵)۔ چھوٹی موٹی کاپوڑا۔ (۳۶)۔ شرم
 والی۔ عزت مند۔ پاکدامن۔
لاچا۔ (۳۷)۔ مٹ (۳۸)۔ لاجوتی۔
لاچین۔ (۳۹)۔ مٹ (۴۰)۔ لاجوتی۔
لاجتی۔ (لاج تی)۔ (۴۱)۔ مٹ (۴۲)۔ لاجوتی۔ کسی چیز کے
 پیچھے لگا ہوا۔
لاجتی ہونا۔ (۴۳)۔ مٹ (۴۴)۔ لاجوتی۔
لاچھہ۔ (لاج۔ خہ)۔ (۴۵)۔ مٹ (۴۶)۔ لاجوتی۔
لاچھنی۔ (لاچ۔ نی)۔ (۴۷)۔ مٹ (۴۸)۔ لاجوتی۔
لاچھنی پانچھی۔ (لاچ۔ نی۔ پانچھی)۔ (۴۹)۔ مٹ (۵۰)۔ لاجوتی۔
لاچھی پونگھنا۔ (لاچھی۔ پونگھنا)۔ (۵۱)۔ مٹ (۵۲)۔ لاجوتی۔

لات کا آدمی بات سے نہیں مانتا۔ (۱)۔ شل (۲)۔ شریہ اور معاش
 آدمی سختی کے بغیر دست نہیں ہوتا۔
 لات مار کر کھڑا ہونا۔ (۳)۔ محاورہ (۴)۔ بچپن کے تندرستی کے ساتھ اٹھنا۔
 بچنے سے بچہ تیرت فرخ پانا۔
 لات مارنا۔ (۵)۔ محاورہ (۶)۔ پاؤں کی ٹھوکر لگانا (۷)۔ نفرت ظاہر کرنا۔
 بے عزتی کرنا۔ (۸)۔ ترک کر دینا۔ چھوڑنا۔ ہاتھ اٹھانا۔ دست برد
 ہونا۔
 لات بھتی۔ لاتوں اور کھولوں سے مارنے کی لڑائی۔
 لاتوں کا بھوت (دیو) باتوں سے نہیں مانتا۔ (۱)۔ شل (۲)۔ کینہ
 بوجھیاں کھانے بغیر سیدھا نہیں ہوتا۔
 لاتیں چلانا۔ (۳)۔ محاورہ (۴)۔ لاتوں سے مارنا۔ ٹھوکر لگانا (۵)۔ دولٹا
 مارنا۔
 لاتیں کھانا۔ (۶)۔ محاورہ (۷)۔ لاتوں سے مارنا۔
 لات - (۸)۔ مٹ (۹)۔ بہت اوجھا ستون یا پینار۔ لاتھ (۱۰)۔ کو شعلہ۔
 لات - (Lord) [کامند - ۱۔ مٹ (۲)۔ مالک - آقا (۳)۔ امیر (۴)۔
 برطانیہ کا اعزازی خطاب (۵)۔ گورنر (۶)۔ حکم صوبہ۔
 لات پادری۔ (۷)۔ مٹ (۸)۔ پادری۔ سب سے بڑا پادری۔
 لات - (Lot) (لاک)۔ (۹)۔ مٹ (۱۰)۔ مٹ (۱۱)۔ مٹ (۱۲)۔ مٹ (۱۳)۔
 لات بندی۔ (۱۴)۔ مٹ (۱۵)۔ لاتوں کے ایک ایک انبار لگانا۔
 لاتھری (Lottery) (لاکھری)۔ (۱۶)۔ مٹ (۱۷)۔ لاتوں کے ایک
 قسم کی قرعہ اندازی۔ جتنے کی ایک قسم۔
 لاتھنا۔ (لاٹ نا)۔ (۱۸)۔ مٹ (۱۹)۔ لاتوں کے ایک ایک انبار
 لاتوں والی۔ (۲۰)۔ مٹ (۲۱)۔ لاتوں کے ایک ایک انبار
 سبھی جاتی ہے۔
 لاتھ - (۲۲)۔ مٹ (۲۳)۔ لاتوں کے ایک ایک انبار۔
 لاتھ (۲۴)۔ مٹ (۲۵)۔ لاتوں کے ایک ایک انبار۔
 لاتھ کی کھوٹی۔ (۲۶)۔ مٹ (۲۷)۔ لاتوں کے ایک ایک انبار۔
 لاتھی۔ (لا۔ ہی)۔ (۲۸)۔ مٹ (۲۹)۔ لاتوں کے ایک ایک انبار۔
 لاتھی پانچھی۔ (لا۔ ہی۔ پانچھی)۔ (۳۰)۔ مٹ (۳۱)۔ لاتوں کے ایک ایک انبار۔
 لاتھی پونگھنا۔ (لا۔ ہی۔ پونگھنا)۔ (۳۲)۔ مٹ (۳۳)۔ لاتوں کے ایک ایک انبار۔
 لاتھی پونگھنا کرنا۔ (۳۴)۔ محاورہ (۳۵)۔ لاتھی پونگھنا۔
 لاتھی پونگھنے نہ ہاکن چھوٹے۔ (۳۶)۔ مٹ (۳۷)۔ لاتوں کے ایک ایک انبار۔
 لاتھی پونگھنے نہ ہاکن چھوٹے۔ (۳۸)۔ مٹ (۳۹)۔ لاتوں کے ایک ایک انبار۔
 لاتھی پونگھنے نہ ہاکن چھوٹے۔ (۴۰)۔ مٹ (۴۱)۔ لاتوں کے ایک ایک انبار۔
 لاتھی پونگھنے نہ ہاکن چھوٹے۔ (۴۲)۔ مٹ (۴۳)۔ لاتوں کے ایک ایک انبار۔
 لاتھی پونگھنے نہ ہاکن چھوٹے۔ (۴۴)۔ مٹ (۴۵)۔ لاتوں کے ایک ایک انبار۔
 لاتھی پونگھنے نہ ہاکن چھوٹے۔ (۴۶)۔ مٹ (۴۷)۔ لاتوں کے ایک ایک انبار۔
 لاتھی پونگھنے نہ ہاکن چھوٹے۔ (۴۸)۔ مٹ (۴۹)۔ لاتوں کے ایک ایک انبار۔
 لاتھی پونگھنے نہ ہاکن چھوٹے۔ (۵۰)۔ مٹ (۵۱)۔ لاتوں کے ایک ایک انبار۔
 لاتھی پونگھنے نہ ہاکن چھوٹے۔ (۵۲)۔ مٹ (۵۳)۔ لاتوں کے ایک ایک انبار۔
 لاتھی پونگھنے نہ ہاکن چھوٹے۔ (۵۴)۔ مٹ (۵۵)۔ لاتوں کے ایک ایک انبار۔
 لاتھی پونگھنے نہ ہاکن چھوٹے۔ (۵۶)۔ مٹ (۵۷)۔ لاتوں کے ایک ایک انبار۔
 لاتھی پونگھنے نہ ہاکن چھوٹے۔ (۵۸)۔ مٹ (۵۹)۔ لاتوں کے ایک ایک انبار۔
 لاتھی پونگھنے نہ ہاکن چھوٹے۔ (۶۰)۔ مٹ (۶۱)۔ لاتوں کے ایک ایک انبار۔

لاسا۔ (لا۔ سا) [ھ۔ ۱۔ مٹ] ایک لیسار مادہ جو پودوں سے حاصل کیا جاتا ہے۔ اور اس سے پرندوں کو کچڑا جانا ہے (۲) چمکا۔ عادت۔ (۳) نشا ستہ۔ گوند۔

لاسا لگانا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) پرندے پکڑنے کے لیے کسی چیز پر چسپاں مادہ لگانا۔ (۲) دو شخصوں کو بھڑوانا۔ جھگڑا لگا دینا (۳) پھنسانا۔ پھپکانا۔

لاسا ہو جانا۔ (۱۔ محاورہ) چپک ہو جانا۔

لا سے پر لگانا۔ (۱۔ محاورہ) مالوس کرنا۔ پلانا۔ گردیدہ بنانا۔ یار بنانا۔ لاسکلی۔ (لا۔ سن۔ کی) [ع۔ ۱۔ مٹ] بلا تار کی برقی روجس سے

ریڈیو وغیرہ چلتے ہیں۔ وائر لیس (Wireless)

لاش۔ (ت۔ ۱۔ مٹ) مُردہ جسم۔ نعش۔ میت۔ جنازہ۔

لاش پٹی۔ (۱۔ مٹ) انخون یا سلب موت کی اطلاعی رپورٹ۔

لاش میڑنا۔ (۱۔ محاورہ) مانا جانا۔ ہلک ہونا۔ مُردہ ہو کر کرنا۔

ولاش خواتن۔ (۱۔ محاورہ) قتل کرنا۔ مار کر ڈھیر کرنا۔

لاشعاعیں۔ (لا۔ ش۔ عا۔ بین) [ا۔ ۱۔ مٹ] وہ خاص قسم کی شعاعیں جو ٹھوس اجسام سے گزر جاتی ہیں اور اس سے جسم کے اندر کی تصویر لی جاتی ہے۔ (X-Rays)

لاشعہ۔ (لا۔ ش۔ عا۔ ف) [ا۔ ۱۔ مٹ] لاش۔ مُردہ جسم۔ (۲) لاغر۔ ڈبلا۔

لاطینی۔ (لا۔ طی۔ نی) [انگ (Latin)] [معرب۔ صفت]

قدیم روم کی زبان۔ رومی زبان۔ قدیم روم سے متعلق۔

لاغر۔ (لا۔ ع۔ عا۔ ف) [ع۔ ۱۔ مٹ] ڈبلا۔ پتلا۔ انزار۔

لاغری۔ (لا۔ ع۔ برنی) [ت۔ ۱۔ مٹ] ڈبلا پن۔ کمزوری۔ ناطقتی۔ نالوائی۔

لاف۔ (ت۔ ۱۔ مٹ) شہنی۔ بڑائی۔ ڈینگ۔ خود ستائی۔

لاف زن۔ (ت۔ صفت) شہنی باز۔ ڈینگیا۔ بڑبولا۔

لاف زنی۔ (ت۔ ۱۔ مٹ) شہنی خود ستائی۔ تعنی۔

لاف زنی کرنا۔ (۱۔ محاورہ) لاف مارنا شہنی بچھارنا۔ اترانا۔ ڈینگ مارنا۔

لاف وگراف۔ (ت۔ ۱۔ مٹ) ہیوہہ سرائی۔ شہنی۔ تعنی۔

لاکٹ۔ (Locket) [انگ۔ ۱۔ مٹ] گھنڈی۔ ٹیکہ۔ بک۔

تعموید۔ گلے میں پہننے کا زیور۔

لاکھ۔ (ھ۔ صفت) (۱) سو ہزار کی تعداد۔ لکھ۔ ۱۰۰۰۰۰ (۲) بہت۔

لے حد۔ بہت بڑے۔ بہت سے۔ ہر چند (۳) ایک قسم کی گوند جو لاکھ کے ٹپٹے سے پیا ہوتی ہے۔ جسے گھگھلا کر ٹکر لگائی جاتی ہے۔

لاکھ بات کی ایک بات۔ (۱۔ مٹ) مختصر گھر پر مغز بات

لاکھ باتیں۔ (۱۔ مٹ) مختلف قسم کی باتیں۔

لاکھ بسوئے۔ (۱۔ مٹ) تابع فعل۔ ضرور۔ یقیناً۔ بلاشبہ۔

لاکھ پھاری سہنے۔ (۱۔ صفت) ہمارے۔ غالب ہے۔ کوئی مقابلہ

نہیں کر سکتا۔ لاثانی ہے۔ بے نظیر ہے۔

لاویا۔ (لا۔ ویا) [ھ۔ ۱۔ مٹ] بار بار وار۔ بوجھ لا کر لے جانے والا۔ لاٹھی۔ (ھ۔ ۱۔ مٹ) لاٹھی۔ پیار۔ اغلاص۔ محبت۔

لاٹھی پیار۔ (۱۔ مٹ) پیار۔ اغلاص۔

لاٹھی لگانا۔ (۱۔ محاورہ) چاؤ چھلے میں پرورش کرنا۔ ناز و نعمت سے پالنا۔

لاٹھا۔ (لا۔ ڈا) [ع۔ ۱۔ مٹ] پیار۔ معشوق۔ (۲) ناز و نعمت سے پالا جو (۳) لڑکے [عاشق (۴) دولہا

لاٹھا۔ لاٹھی۔ (۱۔ صفت) (۱) عاشق و معشوق (۲) دولہا۔ دلہن۔ لاٹھا۔ لاٹھی۔ بنا۔ بتی۔

لاٹھلا۔ (لاٹھ۔ لا) [ھ۔ صفت] پیار۔ معشوق۔ ناز و نعمت سے پالا ہوا۔ لاٹھ لپٹ کٹوے موت۔ (۱) بشل (۲) زیادہ لاٹھ پیار سے اولاد بہت تیز اور گنتی ہو جاتی ہے۔

لاٹھ پیٹ کی باتیں۔ (۱۔ مٹ) ظاہر واری کی باتیں۔ گوال ل باتیں۔

لاٹھی۔ (لاٹھی۔ بتی) [ھ۔ صفت] لاٹھ لکی تائیت۔ پیاری۔ دُلا ری۔ ناز پر مُردہ۔

لاٹو۔ (لا۔ ڈو) [ھ۔ صفت] (۱) لاٹھی [مٹ] (۲) دلہن۔ عروس۔

لاڑ۔ (ھ۔ ۱۔ مٹ) قطار۔ صفت۔ پُرا۔ اُونٹوں کی قطار۔

لاڑا۔ (لا۔ را) [ھ۔ ۱۔ مٹ] جیلہ۔ بہانہ۔

لاڑا لیری۔ (ھ۔ ۱۔ مٹ) جیلہ۔ حوالہ۔ مثال۔ مثول۔

لاڑا لیری کا پیار، کبھی نہ اُترے پیار۔ (۱) بشل (۲) جیلے بہانے بنانے والا ہمیشہ ناکام رہتا ہے۔ اس سے کوئی کام نہیں نکل سکتا۔

لاڑا لیری لگانا۔ (۱۔ محاورہ) جیلہ حوالہ کرنا۔ ثبات۔ آج کل کرنا۔

لاڑو۔ (Lord) [انگ۔ ۱۔ مٹ] دیکھیے لاٹ" ایک انگریزی خطاب۔

لاڑوا۔ (Larva) [د۔ ۱۔ مٹ] کیڑے کے لڑکے سے نکلنے کے بعد کی حالت۔ جھانچا۔ پہل کرپ۔

لاڑی۔ (لا۔ ری) [انگ۔ ۱۔ مٹ] ایک قسم کی موٹر گاڑی۔

لاڑی۔ (ھ۔ ۱۔ مٹ) [دیکھیے لاٹھی پیار۔

لاڑھیا۔ (لاڑھ۔ یا) [ھ۔ ۱۔ مٹ] بڑی چیز کی تعریف کر کے اُسے بجا دینے والا۔ دلال [صفت] مکار۔ فریبی۔ وغاباز۔

لاڑھیا پن۔ (۱۔ مٹ) دغا بازی۔ دھوکہ بازی۔

لاڑم۔ (لا۔ زم) [ع۔ صفت] چوٹا ہوا۔ وابستہ۔ لمبھی (۲) ضرور۔ واجب۔ فرض (۳) صرف و نحو میں وہ فعل جو صرف فاعل پر ہی ختم ہو جائے اور مفعول کو نہ چاہے۔ ذمہ۔ تعلق۔

لاڑم آنا۔ (۱۔ محاورہ) ضروری ہونا۔ یقینی نتیجہ نکلنا۔

لاڑم و ملزوم۔ (ع۔ صفت) ایک دوسرے کے متعلق۔ ایک دوسرے سے وابستہ۔ واجب۔ ضرور۔

لاڑمنہ۔ (لا۔ ز۔ منہ) [ت۔ ۱۔ مٹ] جھوٹ۔ میل۔ سامان۔ ضروری اسباب۔

لاڑمنی۔ (لا۔ ز۔ منی) [ا۔ ۱۔ مٹ] ضروری ملا بدنی۔ واجب۔

لاکھ جان (جی) سے - (۱) جامع فعل، ہزار جان سے - نہایت شوق سے - بدل و جان۔
 لاکھ کا گھر خاک کر دینا - (۱) محاورہ) تمام دولت و عزت خاک میں ملا دینا۔ بالکل تباہ و برباد ہو جانا۔ بنا بنا یا کام بگاڑ دینا۔
 لاکھ کوئی کئے - (۱) روزمرہ کوئی کچھ کئے - ہر چند کوئی کئے۔
 لاکھ لاکھ بناؤ دینا - (۱) محاورہ) بہت زیب و زینت دینا۔ بہت بھلا کرنا۔
 لاکھ لاکھ کوس - (۱) مذ - دُور دُور۔
 لاکھ لاکھ شکر - (۱) صفت) خدا کا بے حد شکر۔
 لاکھ من کا ہونا - (۱) محاورہ) بہت بھاری اور بوجھل ہونا۔ (۲) صفت) عزت و وقار ہونا۔ (۳) بھاری بھر کم ہونا۔
 لاکھ میں - (۱) تابع فعل) ہزاروں میں سینکڑوں میں - بہتیروں کے سامنے (۲) ضرور - یقیناً - بیشک۔
 لاکھ میں ایک - (۱) صفت) نکتہ - چٹنا ہوا - چٹھا ہوا۔
 لاکھ میں کتنا - (۱) محاورہ) علی الاعلان کتنا - کھل کر کتنا۔
 لاکھوں - (۱) مذ) ہزاروں - سینکڑوں - بہت سے - بے شمار۔
 لاکھوں گھڑے پانی پڑنا - (۱) محاورہ) بہت شرمندہ ہونا۔
 لاکھوں میں - (۱) صفت) دیکھو - لاکھ میں۔
 لاکھ ہاتھی ٹٹ گیا پھر سوا لاکھ ٹٹکے کا ہے - (۱) مثل) امریکہ کتنا ہی عزیز ہو جائے پھر بھی اس کی عزت بڑھ کر رہتی ہے۔
 لاکھا - (لا - کھا) [۱] مذ) لاکھ کا سُرخ رنگ جسے غور میں خوبصورتی بڑھا کے لیے اپنے ہونٹوں پر لگاتی ہیں۔ ہونٹوں پر لگانے کی سُرخ (۲) لاکھی رنگ کا گھوڑا۔ (۳) ایک نم کا جنگلی سُرخ۔
 لاکھوال - (لاکھ - وال) [۱] صفت) لاکھ کی نسبت رکھنے والا لاکھی - (لا - کھی) [۲] صفت) لاکھ کے رنگ کا - سُرخ - گھوڑے کا ایک رنگ - لاکھ کا بنا ہوا۔
 لاگ - (لا - گت) [۱] صفت) علاقہ - نسبت - (۲) انس - محبت - لگن - (۳) مزہ - چہک (۴) شوق - رغبت (۵) عداوت و دشمنی - بیز - (۶) کرتب - شجہہ - طاسم دھا جاؤ - ٹوٹا - منتر (۸) دوا - دار (۹) سہارا - دد۔
 لاگ بانڈھنا - (۱) محاورہ) دشمنی پیدا کرنا۔
 لاگ پیدا کرنا - (۱) محاورہ) عداوت پیدا کرنا۔
 لاگ دار - (۱) صفت) [۱] رشتہ دار - ناما دار (۲) ہنوئی - سن کا نام (۳) دوست - پیار - آشنا۔
 لاگ ٹانٹ - (۱) صفت) آن بن - عداوت - بغض - عداوت۔
 لاگ رکھنا - (۱) محاورہ) تعلق رکھنا۔ عداوت رکھنا۔ دشمنی رکھنا۔
 لاگ سے - (۱) تابع فعل) دوسے - سہارے سے - اشتغال سے۔
 لاگ کھلانا - (۱) محاورہ) کوئی جاوگی ہوتی چیر کھلانا - (۲) جاو کو کرنا (۳) کشتہ کھلانا۔

لاگ لپیٹ - (۱) صفت) [۱] طرفداری - پاسداری - حمایت (۲) دغا - کفر - ریب۔
 لاگ گنا - (۱) محاورہ) [۱] عشق ہونا - لگن ہونا۔ (۲) شوق ہونا۔ اُٹنگ ہونا۔ نیارشتہ نکلنا (۳) میس گنا۔
 لاگ لگی ہوئی ہے - (۱) مثل) آپس میں دشمنی ہے۔ (۲) بہت آہ اور تپ دوڑ ہے۔
 لاگت - (لا - گت) [۱] صفت) اصل خرچ - صرف (۲) قیمت۔
 لاگت - بھار - سُرخ۔
 لاگت آنا - لاگت بلٹینا - لاگت گنا - (۱) محاورہ) خرچ ہونا۔ صرف بھینٹنا - خرچ اٹھنا - دام بیٹھنا۔
 لاگو - (لا - گو) [۱] صفت) [۱] دوپے (۲) پار - دوست - آشنا (۳) ہوا ہمنبہ چلنے والا (۴) سامعی - خبر گیری (۵) طرفدار (۶) خریدار - گاہک (۷) دشمن۔
 لاگو ہونا - (۱) محاورہ) [۱] ہوا خواہ ہونا۔ چاہنا۔ خواہش رکھنا (۲) خریدار ہونا (۳) پیچھو پڑنا (۴) شریک حال ہونا (۵) حامی ہونا۔ (۶) مطلب رکھنا۔
 لاگوٹ - (لق - ٹ) [۱] صفت) محبت - پیار۔
 لال - (لا - ف - صفت) [۱] سُرخ - اہم - سوا (۲) دکھتا ہوا - انگارہ (۳) [۱] صفت) گونگا ہوا (۴) خوشنک - غصے میں بھرا ہوا (۵) [۱] صفت) ایک قسم کا بیش قیمت پتھر - لعل - (۶) ایک چھوٹا سا خوش آواز پرند - (۷) [۱] صفت) پیارا - لاٹولا - ناز پرکھ (۸) قیمتی (۹) [۱] صفت) لڑکا - (۱۰) بیٹا - فرزند۔
 لال اکھنا - (۱) محاورہ) منہ سے مٹی جھڑانا (۲) عجیب باتیں کرنا (۳) گایاں دینا۔
 لال انگارہ - (۱) مذ - صفت) [۱] آگ کا انگارہ (۲) نہایت سُرخ - (۳) غصتہ میں بھرا ہوا - غضبناک۔
 لال بھگڑا - (۱) صفت) پرلے درجے کا بے وقوف - وہ احمق جسے اپنی عقل پر بڑا گھنڈ ہو۔
 لال بچار - (۱) مذ) منہ دی بچار جس میں جسم پر سُرخ دانے نکل آتے ہیں۔
 لال بھو کا - (۱) صفت) [۱] نہایت سُرخ (۲) غصتہ کے باعث سُرخ (چہرہ)
 لال بیگ - (۱) مذ) [۱] خاکروبوں کا پتھرا (۲) ایک پروار کی پٹا۔
 لال بچی - لال بیگیا - (۱) مذ) لال بیگ کا مستند - خاکروب - منتر - بھنگی۔
 لال پانی - (۱) مذ) [۱] حیض کا نمون (۲) سُرخ رنگ کی شراب۔
 لال پرسی - (۱) صفت) [۱] سُرخ پوشاک پہننے والی پرسی (۲) اندر سجا کے قفسے کی ایک پرسی - (۳) شراب سُرخ - لال شراب۔
 لال پڑ جانا - (۱) محاورہ) سُرخ ہو جانا - غضبناک ہو جانا - انتہائی غصہ آنا۔

لال پکلا - (۱- مذ) ایک قسم کا کبوتر جس کا رنگ سرخ-پوٹا-دُم اور بازو سفید ہوتے ہیں۔
 لال پیارا تو اس کا خیال بھی پیارا - (۱- مثل) جو میں بھا جائے اس کی ہر بات پسند ہوتی ہے۔
 لال پیلا - (۱- مذ) غضبناک، بے شکر، غصہ میں بھرا ہوا۔
 لال پٹی آنکھیں کرنا (دنگالنا) - (۱- محاورہ) غصے کی نگاہ سے دیکھنا۔
 بہشت نار امن ہونا۔
 لال خمال کا لکڑا - (۱- مذ) مجرم کو سزا دینے کا ایک بڑا بھاری شہتیر جو بیچ میں سے چلا ہوا اور سوراخ والا ہوتا ہے۔ اس میں مجرم کے پاؤں رکھ کر دونوں ٹکڑوں کو پلا دیتے ہیں۔
 لال ڈھورے - (۱- مذ) (۱) سرخ تار - (۲) سرخ تانگے (۳) لال لال رگیں، جو آنکھوں میں دکھائی دیتی ہیں۔
 لال رکابی - (۱- مرث) حضرت فاطمہ زہراؑ کی نیاز - صحنک۔
 لال سوداگر - (۱- مذ) وہ کم بایہ سوداگر جو ادھر مال لے اور ادھر چھٹ فتورے سے منافع پر بیچ ڈالے - ٹٹ پونجیا۔
 لال کتاب - (۱- مرث) وہ کتاب جس میں جاہلوں کے نزدیک تمام باتوں کا جواب حسب منہی یا حسب حال مل جائے۔ (۲) بند و بست کی کتاب - پورا یوں یا قانون گویوں کی کراڑی کتاب۔
 لال کُرتی - (۱- مرث) گوروں کی پیش بوسرخ و روئی ہینتی تھی۔
 لال گودڑ میں نہیں چھپتا - (۱- مثل) اچھی چیز چھپائے نہیں چھپتی۔
 لال مریج - (۱- مرث) سرخ مریج۔
 لال ہونا - (۱- محاورہ) (۱) سرخ ہو جانا (۲) غصے میں چہرہ تپنا اٹھنا۔ (۳) غضبناک ہونا - خفا ہونا - (۴) پھل کینا - بیختم ہونا۔
 لالوں کا لال - نہایت پیارا - لاڈلہ - سرخ و سفید - رنگ و روغن والا۔
 لالوں لال - نہایت شوخ - چھپاتا ہوا - سرخ و شاداب۔
 لا لا - (لا - لا) [۱- مذ] (۲) غلام (۳) [صفت] روشن - درخشاں۔
 لا لا - (لا - لا) [۱- مذ] (۲) جناب - صاحب - معزز - ہندوں کا خطاب (۳) نبیا - ساہوکار - مہاجن - (۴) والد کا خطاب - آبا۔
 باوا (۵) عزیز - پیارا - (۶) خسر - سسر۔
 لا لا شاہی - (۱- مذ) پینے کا تباکو
 لا لٹین - (لال - لٹین) [۱- مرث] (Lantern) کا منند - (۲) مرث] وہ فانوس جس میں شیشے کے ہوتے ہوں - شیشے کی قندیل۔
 لا لچ - (لا - لچ) [۱- مذ] (۲) حرم - طبع - لوبہ (۳) بھلا - (۴) شہوت
 لا لچ بڑی بلا ہے - (۱- مثل) حرم سے بڑھ کر کوئی آفت نہیں۔
 لا لچ حویلا - (۱- صفت) لالچی - سرلیں - طبع کرنے والا۔
 لا لچ دینا - (۱- محاورہ) طبع دینا - لوبہ دینا - بھلا - ترغیب دینا۔
 لا لچ میں آنا - (۱- محاورہ) لوبہ میں آنا - (۲) میں کنا طبع میں چھپنا۔
 لا لچی - (لال - لچی) [۱- صفت] (۲) حریص - طامع - لوبھی۔
 لا لچی بندہ - خود غرض - لوبھی - مطلبی۔

لال لٹری - (لال - لٹری) [۱- مذ] (۲) مرث] (۳) چھوٹا لال - یا قوت (۴) نام لڑا۔
 لالین - (لق - ۱- مذ) معشوق - محبوب۔
 لالوں کا لال - (۱- مرث) (۲) سرخ و سفید رنگ والا (۳) بہت پیارا - لاڈلا۔
 لالہ - (لا - لہ) [۱- مذ] (۲) ایک قسم کا سرخ پھول جس کے اندر سیاہ داغ ہوتا ہے۔
 لالہ بنا گوش - (۱- صفت) جس کے کان کی کو سرخ ہو۔
 لالہ فرخ - لالہ رخسار - لالہ زور - لالہ عذار - (۱- صفت) سرخ چہرے والا معشوق - دلبر۔
 لالہ رنگ - (۱- صفت) جس کا رنگ سرخ ہو۔
 لالہ زار - (۱- مذ) (۲) وہ کیفیت جس میں لالہ کے بوٹے ہوں۔ (۳) باغ - گلزار - چمن۔
 لالہ طور - (۱- مذ) آتش طور۔
 لالہ فام - لالہ گوں - (۱- صفت) لال - سرخ رنگ کا۔
 لالی - (لا - لی) [۱- مرث] (۲) مرث] (۳) عزت - آبرو - سرخ روئی۔
 عزیزہ - (۴) ہمیشہ - ہمیں - (۵) لا لچ (۶) [۱- صفت] (۲) لالی رہ جانا - (۳) محاورہ) عزت رہ جانا - آبرو بچ جانا - بات بنی رہنا۔
 لالی پاپ - (Lollypop) [۱- مرث] (۲) بچوں کی مٹھائی۔
 لالے - (لا - لے) [۱- مذ] (۲) آرزو - اشتیاق - تمنا - (۳) کسی چیز سے نا امید ہونا۔
 لالے پڑنا - (۱- محاورہ) (۲) ارمان ہونا - (۳) نہایت نا امید ہونا۔
 مصیبت میں پھنسا ہونا - (۴) دشوار ہونا - مشکل ہونا۔
 لام - (لا - مذ) [۱- مذ] (۲) فوج کا مجموعہ وغیرہ - بریگیڈ - فوج کا دستہ (۳) لفظ غالب فرانسیسی لفظ (Larme) کا منند ہے۔
 لام باندھنا - (۱- محاورہ) چاروں طرف سے لشکر جمع کرنا - لڑائی کا سامنا کرنا۔
 لام - (لا - مذ) (۲) حرفت ل - (۳) تلفظ (۴) [صفت] عمیدہ۔
 لام ٹیڑھا (۵) تشبیہ) زلف۔
 لام کاف - (لا - مذ) (۲) گالی گفتار - بُرا بھلا - واہی تباہی۔
 لام کاف بکنا - (۱- محاورہ) گالی گلوچ کرنا - بدزبانی کرنا - فحش کرنا۔
 لام - (لا - مذ) (۲) آفت کے بڑھ پیشواؤں کا لقب۔
 لامال - (لا - مذ) (۲) مرث] [۱- صفت] چھوٹے والا۔
 لامس - (لا - مس) [۱- صفت] چھوٹے والا۔
 لامسہ - (لا - مس) [۱- مرث] [۲- صفت] چھوٹے پاس کرنے والی قوت۔
 لامع - (لا - مع) [۱- صفت] چمکنے والا - روشن - درخشاں۔
 لان - (Law) [۱- مرث] (۲) گھاس کا قطعہ - سبزہ زار۔
 لانا - (لا - نا) [۱- صفت] (۲) لے آنا (۳) حاضر کرنا - پیش کرنا - سلسلے کرنا۔ (۴) اٹھانا - برپا کرنا - (۵) ٹول لینا - خریدنا۔
 لانا بندی - (لا - بند) [۱- مرث] (۲) معاملہ - گفتاری - ہوں کے مطابق لگان۔
 لانبیا - (لا - با) [۱- صفت] (۲) لمبا - اونچا - طویل - دلاز۔
 لانچ - (Launch) [۱- مرث] (۲) [۱- مذ] [۲- صفت] اور بھاپ سے چلنے

لائجھ - (لا۔ ا۔ ح۔) [ع۔ ا۔ ۱۔ مد] کوئی چمکی چیز (۲)، کوئی واضح چیز (۳)
 شہوت - (۴)، فرست - (۵)، پروگرام - منصوبہ - جمع بواجح -
لائجھ - (ع۔ ا۔ ۱۔ مد) دستور العمل - نصب العین - پروگرام - نظام عمل -
لائسنس - (Licence) (لا۔ ای۔ نسیں) [انگ۔ ۱۔ مد] اجازت نامہ - پریٹ
لائسنس دار - (۱۔ صفت) جسے کوئی چیز رکھنے یا بیچنے کی اجازت ملی ہو۔
لائف - (Life) [انگ۔ ۱۔ صفت] زندگی - حیات -
لائف انشورنس (Life Insurance) [انگ۔ ۱۔ صفت] زندگی کا بیمہ -
لائف بوائز (Life Boat) [انگ۔ ۱۔ صفت] بچاؤ کی کشتی - وہ کشتی
 جو جہازوں میں خطرے کے وقت استعمال کے لیے رکھی جاتی ہے۔
لائق - (لا۔ ای۔) [ع۔ صفت] قابل - مناسب - زریعہ - سوزوں -
 واجب - (۲، روانہ - جانے - (۳) سجا - درست (۴) [اُردو] کانی -
 کشتی - دانی (۵) ہنر مند - کئی - ذی جوہر - شرفند - اہل - دانا - ہوشیار -
لائق فائق - (فت - صفت) لیاقت میں فوقیت رکھنے والا -
لائم - (لا۔ ایم) [ع۔ صفت] طاعت کرنے والا -
لائن - (Line) [انگ۔ ۱۔ صفت] [۱۔ خط (۲) ریل کی لوسے کی سڑک -
 (۲) قطار (۳) وضع - طرز - انداز -
لائن اختیار کرنا - (۱۔) (۲) (۳) کسی طرف پھیلنا - وضع یا انداز اختیار کرنا -
لائن کلیر - (Line Clear) [انگ۔ ۱۔ مد] ریل کی سرک صاف
 اور آمد و رفت کے قابل ہونے کی سند -
لاؤ - (لا۔ او) [ع۔ ۱۔ مد] [۱] چرس کھینچنے کی موٹی رسی - موٹار سم - (۲)
 اس قدر زمین جو ایک دن میں ایک چرس کے ذریعے سے
 چھری جاتے (۳) مانگ طلب (۴) فرض جو بے ضمانت لیا جائے (۵) خوشامد
لاؤ اسپیکر کی باتیں - (۱۔ صفت) گول مول باتیں -
لاؤ شوکر - [اُردو۔ ۱۔ مد] فوجی بیڑے کا بھڑکنا اور ٹکے ہلنا - اڑنا -
لاؤ اسپیکر - (Loud Speaker) (الاؤڈ۔ سپی۔ کز) [انگ۔
 ۱۔ مد] آواز بڑھانے والا - ایک آواز بڑھانے والے کے ذریعے
 آواز کو اونچا کرنا ہے۔
لاؤٹا - (قی - مص) لگانا -
لاؤنی - (لا۔ ا۔ نی) [ع۔ ۱۔ صفت] [۱] ایک قسم کے گیت (۲) فصل
 کاٹنے کی مزدوری - (۳) خراج مال کرناری - معاملہ -
لائی - (لا۔ ای) [ع۔ ۱۔ صفت] [۱] فصل کا کاٹنا - (۲) خود کو دھاول -
 (۳) مہینا ہونا - (۴) ایک قسم کی مٹھانی -
لائوچی - (لا۔ ای۔ ٹو۔ جی) [ع۔ ۱۔ صفت] خوشامد -
لائے - (فت - ۱۔ صفت) [۱] مشرب وغیرہ کی چمچٹ (۲) ایک قسم کا زینتی کپڑا -

دالی بڑی کشتی -
لائڈا - (قی - صفت) لٹڈوٹا -
لائڈری - (Laundry) (لا۔ ن۔ ڈ۔ برنی) [انگ۔ ۱۔ صفت] کپڑا
 دھونے کا کارخانہ - دھوبی کی دوکان -

لائڈ کا - (قی - ۱۔ مد) بھیٹا یا -
لائٹنگ - (۱۔ صفت) [۱] کئے ہوئے آماج کا ڈھیر - کھلیان - نرسن -
 (۲) بجھن - بجھوسا - چوکر (۳) مقدار - اندازہ - تعداد -

لائٹنگ - (۱۔ صفت) دھونی کا وہ حصہ جو آگ لگنا رہتا ہے اور جسے
 پیچھے کی طرف اُڑس لیتے ہیں -

لائٹنگ ٹیبل - (لا۔ گ۔ ٹیبل) [ع۔ ۱۔ صفت] قطار - صف - پرا - ڈار - سلسلہ
لائٹنگن - (لا۔ گ۔ گن - لائ - گن) [ع۔ ۱۔ صفت] [۱] آگ لگنے کا
 محقق - پھانڈ - پھلانگ -

لائٹنگن - (لا۔ گ۔ گن - لائ - گن) [ع۔ ۱۔ صفت] [۱] آگ لگنا - پھلانگ
 مارنا - پھلانگ - گونڈا - (۲) جوڑ کر کرنا - آپس سے گزار جانا - (۳)
 گھوڑے پر پہلے پہل سواری کرنا -

لائنی - (قی - ۱۔ صفت) زینکلا -

لاوا - (Lava) [انگ۔ ۱۔ مد] آتش نشان پہاڑ سے نکلنے والا سیال مادہ -
لاؤٹ (قی - ۱۔ مد) [۱] خمیر اٹھانے کا ٹوٹا - (۲) سُر -

لاؤن - (لاؤن) [ع۔ ۱۔ مد] سالن - تکراری وغیرہ - وہ چیز جس سے
 روٹی لگا کر کھلیں -

لاہ - (۱۔ مد) [۱] کوئل کا بڑا اور کڑور پتہ (۲) جالی کے مانند ایک
 قسم کا زینتی کپڑا (۳) سُر لگانے کی لاکھ -

لاہا - (لا۔ ہا) [ع۔ ۱۔ مد] لاکھ - فائدہ - نفع
لاہن - (لا۔ ہن) [ع۔ ۱۔ مد] شراب کا خمیر - جو - بیر - پیل اور بڑ
 کے درختوں کی چھال سے اٹھا یا ہوتا ہے -

لاہوری - (لا۔ ہو۔ ری) [ع۔ ۱۔ صفت] صوبہ پنجاب کا دار الحکومت
 لاہور سے منسوب [۱] لاہور کا باشندہ - ایک چھوٹے کا نام - کانپل -

لاہوری نمک - (۱۔ مد) وہ نمک جو پنجاب میں نمک کی کان سے نکلتا ہے -
لاہی - (لا۔ ہی) [ع۔ ۱۔ صفت] [۱] ایک قسم کا پرواد (۲) ایک قسم کی سرک -
 (۳) ایک قسم کا زینتی کپڑا - (۴) سُر زنگ جس میں سیاہی غالب ہو -

لائبریری - (Library) (لا۔ اب۔ رنے۔ ری) [انگ۔ ۱۔ صفت]
 کتب خانہ - مجموعہ کتب - دارالمطالعہ -

لائبریرین - (Librarian) (لا۔ اب۔ رنے۔ ری) [انگ۔ ۱۔ صفت]
 [۱۔ مد] محافظ کتب خانہ - کتب خانہ کا ناظم -

لائٹ - (Light) (لا۔ ایٹ) [انگ۔ ۱۔ صفت] روشنی -
لائٹ ہاؤس - (Light-House) [انگ۔ ۱۔ مد] بیڈار جس
 پر جہازوں کی رہنمائی کے لیے روشنی کی جاتی ہے - روشنی کا بیڈار -

لائٹر - (Lighter) (لا۔ نی۔ ٹز) [انگ۔ ۱۔ مد] پٹرول سے سگریٹ
 جلانے کی مشین -

ل۔ ب

لب - (فت - ۱۔ مد) [۱] ہونٹ (۲) کنارہ (۳) طرف - جانب (۴) ساحل - کراڑا

(۴) ماشیہ۔ دور۔ کنی۔ (۵) منڈیر (۶) [اُن] خٹوک۔ لعابِ دکن (۷)
 ہونٹوں کے اوپر کے بال۔ موٹھیں۔
لب آب۔ (د۔ ا۔ مذ) دریا، ندی یا حوض وغیرہ کا کنارہ۔
لب بام۔ (د۔ ا۔ مذ) کھٹے یا چھت کا کنارہ۔
لب لیفتہ۔ (د۔ ا۔ صفت) تختہ بند۔
لب بند ہونا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) شیرینی سے ہونٹوں کا چپک جانا (۲) منہ بند ہونا۔ خاموش ہونا۔
لب پر لب۔ (د۔ صفت) لب سے لب ملنے ہوئے (۲) مقابلاً کرنے والا۔
لب پر آنا۔ (۱۔ محاورہ) زبان پر آنا۔ کچھ کہنا جانا۔
لب پر آہ ہونا۔ (۱۔ محاورہ) زبان پر آہ و زاری ہونا۔ ظلم کی شکایت ہونا۔ شکوہ ہونا۔
لب پر دم ہونا۔ (۱۔ محاورہ) مرنے کے قریب ہونا۔
لب پر رکھا ہونا۔ (۱۔ محاورہ) پہلے سے کچھ کہنے کو تیار ہونا۔
لب پر لانا۔ (۱۔ محاورہ) کچھ کہنا۔ مذکرہ کرنا۔
لب پر نثر لگانا۔ (۱۔ محاورہ) خاموش ہو جانا۔
لب نہ کرنا۔ (۱۔ محاورہ) تھوڑا سا پانی پینا۔
لب نشہ۔ (د۔ مذ) پیاسا (۲) آرزو مند۔
لب نقریر۔ (د۔ ا۔ مذ) کناٹیا تقریر۔
لب تیج۔ (د۔ ا۔ مذ) تلوار کی دھار۔
لب جام۔ (د۔ ا۔ مذ) پیالے کا کنارہ۔
لب بچو۔ (د۔ ا۔ مذ) ندی کا کنارہ۔
لب چبانا۔ (۱۔ محاورہ) کناٹیا حسرت افسوس کرنا۔
لب چوسنا۔ (۱۔ محاورہ) ہونٹوں کو دانتوں میں دبا کر چوسنا۔
لب خشک ہونا۔ (۱۔ محاورہ) پیاس کا غلبہ ہونا۔ کناٹیا بے حد تعریف کرنا۔
لب دریا۔ (د۔ ا۔ مذ) دریا کا کنارہ۔ کراڑا۔ ساحل۔
لب دوز۔ (د۔ صفت) سیسے ہوئے لب۔ چپ۔ خاموش۔
لب پریمز۔ (د۔ صفت) بھرا ہوا۔ پُر۔ لبالب۔
لب سو قار۔ (د۔ ا۔ مذ) تیرگی ٹوک۔
لب سینا۔ (۱۔ محاورہ) بولنے نہ دینا۔
لب شیریں۔ (د۔ ا۔ صفت) میٹھے ہونٹ کے معشوق کے ہونٹ۔
لب کٹانی۔ (د۔ صفت) منہ کھولنا۔ بات کرنا۔
لب کھولنا۔ (۱۔ محاورہ) بات کرنا۔ بولنا۔
لب گور ہونا۔ (۱۔ محاورہ) مرنے کے قریب ہونا۔ گور کے کنارے پہنچنا۔
لب گویا۔ (د۔ ا۔ مذ) بولنے والے لب۔
لب لگانا۔ (۱۔ محاورہ) خٹوک لگانا۔ لعابِ دکن لگانا۔
لب نوشین۔ (د۔ ا۔ صفت) میٹھے ہونٹ۔

لب نہ بلانا۔ (۱۔ محاورہ) چپ رہنا۔ خاموش رہنا۔
لب و بچہ۔ (د۔ ا۔ مذ) تلفظ۔ طرزِ لہجہ۔ طرزِ گفتگو۔
لبوں پر جان آنا۔ (۱۔ محاورہ) ہونٹوں پر دم آنا۔ جان کنی کا وقت آنا۔ دم واپس ہونا۔ گدگد کر کے لگانا۔
لبوں پر ہونا۔ (۱۔ محاورہ) کنا سے پر پہنچنا۔
لبیں لینا۔ (۱۔ محاورہ) موٹھیں منڈوانا۔ ہونٹوں کے بال نڈوانا۔
لب۔ (د۔ ا۔ مذ) عطر۔ چوڑ۔ خلاصہ۔ سنت۔ معجز۔ جمع۔ لبوب۔
لب لباب۔ (د۔ ا۔ مذ) خلاصے کا خلاصہ۔ عطر کا عطر۔ سنت کا سنت۔ نہایت خالص۔
لبادہ۔ (د۔ ا۔ با۔ دہ) [د۔ ا۔ مذ] رُوئی دار چین۔ جبہ۔
لباڑ۔ (د۔ ا۔ با۔ ل۔ با۔ لڑی) [د۔ ا۔ صفت] جھٹلا۔ لپائی (۲) لٹا۔ (۳)
لباس۔ (د۔ ا۔ باس) [د۔ ا۔ مذ] پوشاک۔ جامہ۔ کپڑے (۲) روپ۔
لباس۔ (د۔ ا۔ باس) [د۔ ا۔ مذ] پوشاک۔ جامہ۔ کپڑے (۲) روپ۔
لبا لب۔ (د۔ ا۔ با۔ لب) [د۔ ا۔ صفت] نڈکر۔ لبریز۔ بھرا ہوا۔ کناروں تک بھرا ہوا۔
لبا لب ہونا۔ (۱۔ محاورہ) منہ۔ منہ تک بھرنے۔ پُر ہونا۔ لبریز ہونا۔
لبند۔ (د۔ ا۔ مذ) [د۔ ا۔ صفت]۔
لبدا۔ (د۔ ا۔ لبت) [د۔ ا۔ صفت] لٹوٹا ہوا۔ بے ڈول۔ ڈنڈا۔
لبدا۔ (د۔ ا۔ لبت) [د۔ ا۔ صفت] فریفتہ۔
لبدان۔ (د۔ ا۔ لبت) [د۔ ا۔ صفت]۔
لبدان ہاڑ۔ (د۔ ا۔ لبت) [د۔ ا۔ صفت]۔
لبدی۔ (د۔ ا۔ لب) [د۔ ا۔ صفت]۔
لبرتی۔ (Liberty) [د۔ ا۔ لبر۔ تی] [د۔ ا۔ صفت]۔ آزادی۔
لبرل۔ (Liberal) [د۔ ا۔ لبر۔ ل] [د۔ ا۔ صفت]۔ آزادی۔
لبرل ازم۔ (Liberalism) [د۔ ا۔ لبر۔ لزم] [د۔ ا۔ صفت]۔ آزادی۔
لبڑ۔ (د۔ ا۔ لبڑ) [د۔ ا۔ صفت]۔
لبڑ خندہ۔ (د۔ ا۔ لبڑ) [د۔ ا۔ صفت]۔
لبڑ دھول دھول۔ (د۔ ا۔ لبڑ) [د۔ ا۔ صفت]۔
لبڑ بڑ۔ (د۔ ا۔ لبڑ) [د۔ ا۔ صفت]۔
لبڑو۔ (د۔ ا۔ لبڑ) [د۔ ا۔ صفت]۔
لبڑ بڑ۔ (د۔ ا۔ لبڑ) [د۔ ا۔ صفت]۔

والا۔ نحو شامدی۔
 لپیٹ۔ (ل۔ پیت) [ھ۔ ا۔ مٹ] (۱) بیچ۔ (۲) بک۔ مکر۔ فریب۔
 دغا (۳) گھبرا۔ دور۔ محیط (۴) الجھیرا۔ جینال (۵) مصیبت۔
 آفت۔
 لپیٹ جھپٹ۔ (ھ۔ ا۔ مٹ) فریب۔ مکر۔ بیچ۔ داؤ۔ فتنہ۔
 لپیٹ لپاٹ کر۔ (ا۔ تابع فعل) باندھ کر۔ نہ کر کے۔
 لپیٹ کی باتیں۔ (ا۔ مثل) چالاک اور فریب کی باتیں۔
 لپیٹ لینا۔ (ا۔ محاورہ) شریک کر لینا۔ (بلا لینا، مکر لینا) الجھالینا۔
 لپیٹ میں آجانا۔ (ا۔ محاورہ) مصیبت میں پھنس جانا۔ پھنس جانا۔
 لپیٹین۔ (ل۔ پے۔ من) [ھ۔ ا۔ مٹ] (۱) بیچ (۲) چسٹ (۳) سہلن جس پر بوجھ لگایا جاتا ہے۔
 لپیٹنا۔ (ل۔ پیٹ۔ نا) [ھ۔ مٹ] (۱) تہ کرنا۔ سہلنا۔ باندھنا۔ کسنا (۲) آٹو دھ کرنا۔ تقویتنا (۳) الجھانا۔ ملانا (۴) چھپانا۔ ڈھانکنا۔
 لپیٹوال۔ (ل۔ پیٹ۔ وال) [ھ۔ صفت] (۱) چھپو۔ لطفوت (۲) بلا ہوا۔ (۳) درپردہ۔ پوشیدہ (۴) بل دار۔ بیچ دار۔
 لپیٹوال ہات۔ (ا۔ مٹ) گول بات۔ چھپو بات۔ چال کی بات۔
 فریب کی بات۔

باندھنا۔
 لپٹری۔ (لپ۔ لڑنی) [ھ۔ ا۔ مٹ] (۱) کپڑا۔ بسترا۔ پھٹ پڑنا۔
 صاف۔ پگڑی۔
 لپٹسی۔ (لپ۔ سنی) [ھ۔ ا۔ مٹ] (۱) موٹے آٹے کا پتلا علوہ۔ سیرا۔
 لیبی (۲) بوڑھا بچونس۔ نہایت بوڑھا۔
 لپکت۔ (ل۔ پکت) [ھ۔ ا۔ مٹ] (۱) کوٹنا۔ روشنی۔ جھلکارا۔ جھک
 (۲) لاٹ۔ نو۔ شعلہ۔ لپٹ (۳) دھوک۔ تڑپ (۴) ٹیس۔ نرم
 کی سوزش۔
 لپک جھپک۔ (ا۔ مٹ) تیزی۔ طآری۔ چستی۔ پھرتی۔ جلد بازی۔
 لپک کر۔ (ا۔ تابع فعل) جلدی سے۔ دوڑ کر۔ فوراً۔ تڑت۔
 لپک لینا۔ (ا۔ محاورہ) جھپٹ کر لینا۔ اچھلتی ہوئی چیز کو ہاتھوں پر
 لینا۔ چھین لینا۔
 لپکا۔ (لپ۔ کا) [ھ۔ ا۔ مذ] (۱) بوجھوت (۲) کت۔ عادت۔ نحو۔
 (۳) مزہ۔ چسکا۔
 لپکا پڑنا۔ (ا۔ محاورہ) (۱) مزہ پڑنا۔ چسکا لگنا (۲) برسی عادت پڑنا۔
 لپکا جانا۔ (ا۔ محاورہ) عادت ترک ہونا۔
 لپکانا۔ (لپ۔ کانا) [ھ۔ مٹ] (۱) اڑانا۔ جھگانا (۲) آگے کرنا۔ چھلانا
 لپکا ہونا۔ (ا۔ محاورہ) کسی بڑے کام کی عادت ہونا۔ چسکا پڑ جانا۔
 عادی ہوجانا۔
 لپکنا۔ (ل۔ پکت۔ نا) [ھ۔ مٹ] (۱) ڈوڑنا۔ چھٹنا۔ (۲) اچھلنا۔ چھیننا۔
 چھلانگ مارنا۔ ٹیس پڑنا۔ (۳) بجلی چمکنا (۴) دھڑکنا۔ پھلکنا (۵)
 اچھلنا۔ چھلانگ مارنا۔ چھلانگ دے، دوڑ کر جانا۔ حملہ کرنا (۶) آگ کا
 تیز ہونا۔ شعلہ بھڑکنا۔
 لپکی۔ (لپ۔ کی) [ھ۔ ا۔ مٹ] (۱) ٹانگنا۔ سیون۔ (۲) شلنگا کچی سلائی
 (۳) گولت کنارہ۔
 لپکی بھڑنا۔ لپکی مارنا۔ (ا۔ محاورہ) ٹانگنا لگانا۔ کچی سلائی کرنا۔
 لپکی۔ (لپ۔ کی) [ھ۔ مٹ] (۱) ڈور۔ نحو۔ دہشت (۲) ڈاسے
 چھپ جانا۔
 لپ لپ۔ (لپ۔ لپ) [ھ۔ ا۔ مٹ] (۱) کتے کے کھانے پینے کی آواز (۲)
 برآن سے چاٹنے یا پوٹے منہ سے کھانے کی آواز۔
 لپ لپ کرنا۔ (۱) کھانے میں کتے کی طرح آواز نکالنا (۲) بکواس
 کرنا۔ بیہودہ بکنا۔
 لپ لپ کھانا۔ جلد جلد کھانا۔ بغیر جباتے کھا جانا۔
 لپلپانا۔ (لپ۔ ل۔ پانا) [ھ۔ مٹ] (۱) متعده کا بند ہونا اور کھٹنا۔ ڈرنا۔
 نحوٹ کھانا۔
 لپینا۔ (لپ۔ نا) [ھ۔ مٹ] (۱) استرکاری ہونا۔ لپتر ہونا۔
 لپوانی۔ (لپ۔ وا۔ ای) [ھ۔ ا۔ مٹ] (۱) لپانی کی اہرت۔ کھل کرنے
 کی مزدوری۔
 لپوڑ پا۔ (لپ۔ پوڑ۔ یا) [ھ۔ صفت] (۱) منت سماجت کر کے کام نکالنے

ل۔ ت۔

کت۔ (ھ۔ ا۔ مٹ) (۱) بڑی عادت (۲) نحو خصلت۔ علت۔ لپکا۔
 (۳) لات کا تعق۔ دولتی۔
 کت پت۔ (لقتہ پتہ)۔ (ا۔ صفت) آٹوہ۔ بھرا ہوا (۲) آٹوہ کی۔
 آمیزش (۳) خوب حال بخستہ حال۔
 کت پت کر دینا۔ (ا۔ محاورہ) آٹوہ کر دینا۔ بھرو دینا۔
 کت پت ہونا۔ (ا۔ محاورہ) بھرجانا۔ بہت آٹوہ۔ طوٹ ہونا۔
 کت پڑنا۔ (ا۔ محاورہ) عادت پڑنا۔
 کت پیچھے لگنا۔ (ا۔ محاورہ) کسی بات کا عادی ہوجانا۔
 کت خور (خور)۔ (ا۔ صفت) لائیں کھانے والا۔ ذیل بکینہ۔ (۲)
 (مذ) غلام۔ برودہ (۳) دہیز۔ آستانہ۔
 کت ڈالنا۔ (ا۔ محاورہ) برسی عادت کا عادی ہوجانا۔
 کت گھت۔ (ا۔ مٹ) عاقبہ خصلتیں۔
 کتا۔ (س۔ ا۔ مٹ) انگور کی سیل۔ (۲) لمبی اور تپلی عورت۔
 کتا۔ (کت۔ تا) [ھ۔ ا۔ مذ] (۱) گوڑ۔ چھتھرا (۲) پارچہ کپڑا۔
 کتاڑ۔ (ل۔ تاڑ) [ا۔ مٹ] (۱) طامت۔ سرزکش (۲) دکھ۔ مصیبت (۳)
 کام کاج کی زیادتی (۴) دوڑ دھوپ (۵) پامالی (۶) دباؤ۔
 کتاڑ میں آنا۔ (ا۔ محاورہ) گردش میں آنا۔ مصیبت میں پھنسنا۔
 کتاڑنا۔ (ل۔ تاڑ۔ نا) [ھ۔ مٹ] (۱) لائیں مارنا۔ روٹنا۔ پامال کرنا۔

لپکنا۔ (لپ۔ کانا) [ھ۔ مٹ] (۱) ڈوڑنا۔ چھٹنا۔ (۲) اچھلنا۔ چھیننا۔
 چھلانگ مارنا۔ ٹیس پڑنا۔ (۳) بجلی چمکنا (۴) دھڑکنا۔ پھلکنا (۵)
 اچھلنا۔ چھلانگ مارنا۔ چھلانگ دے، دوڑ کر جانا۔ حملہ کرنا (۶) آگ کا
 تیز ہونا۔ شعلہ بھڑکنا۔
 لپکی۔ (لپ۔ کی) [ھ۔ ا۔ مٹ] (۱) ٹانگنا۔ سیون۔ (۲) شلنگا کچی سلائی
 (۳) گولت کنارہ۔
 لپکی بھڑنا۔ لپکی مارنا۔ (ا۔ محاورہ) ٹانگنا لگانا۔ کچی سلائی کرنا۔
 لپکی۔ (لپ۔ کی) [ھ۔ مٹ] (۱) ڈور۔ نحو۔ دہشت (۲) ڈاسے
 چھپ جانا۔
 لپ لپ۔ (لپ۔ لپ) [ھ۔ ا۔ مٹ] (۱) کتے کے کھانے پینے کی آواز (۲)
 برآن سے چاٹنے یا پوٹے منہ سے کھانے کی آواز۔
 لپ لپ کرنا۔ (۱) کھانے میں کتے کی طرح آواز نکالنا (۲) بکواس
 کرنا۔ بیہودہ بکنا۔
 لپ لپ کھانا۔ جلد جلد کھانا۔ بغیر جباتے کھا جانا۔
 لپلپانا۔ (لپ۔ ل۔ پانا) [ھ۔ مٹ] (۱) متعده کا بند ہونا اور کھٹنا۔ ڈرنا۔
 نحوٹ کھانا۔
 لپینا۔ (لپ۔ نا) [ھ۔ مٹ] (۱) استرکاری ہونا۔ لپتر ہونا۔
 لپوانی۔ (لپ۔ وا۔ ای) [ھ۔ ا۔ مٹ] (۱) لپانی کی اہرت۔ کھل کرنے
 کی مزدوری۔
 لپوڑ پا۔ (لپ۔ پوڑ۔ یا) [ھ۔ صفت] (۱) منت سماجت کر کے کام نکالنے

خراب کرنا - (۲) دکھنا کرنا - علامت کرنا - (۳) محنت لینا - (۴)

لست محمد - (۱) صفت [خراب کرنا -

لُتْرا - (لُتْ - نا) [صفت] اوہر کی اوہر کہنے والا پُچھل غور - (۲) بکواسی - بکی (۳) بے وفاء بے مروت -

لُتْراپن - (لُتْ - نا) بات کا اوہر سے اوہر جاننا - فساد کرنا -

لُتْری - (لُتْ - ری) [صفت] وہ عورت جو اوہر کی اوہر اور اوہر کی اوہر کہنے پُچھنے پر لگی -

لُتْری کان لُتْری - (۱) محاورہ] وہ عورت جو اپنے لُتْرائے کے سبب کان کاٹ دینے کے لائق ہو جس کے کان کاٹ دیے گئے ہوں - غمازہ -

لُتْھ پُتْھ - (۱) صفت] دیکھیے لُتْ پُتْ - بھرا ہوا - آلودہ -

لُتْھ پُتْھ - (لُتْ - پ - پُتْھ) [صفت] دیکھیے لُتْ پُتْھ - آلودہ -

لُتْھڑنا - (لُتْھڑ - نا) [صفت] آمیز ہونا - بلنا (۲) بلانا (۳) آمیز کرنا (۴) لیب کرنا لیب لگانا -

لُتْھیرنا - (لُتْھیر - نا) [صفت] (۱) کیچڑ یا کسی گاڑھی چیز میں لُتْ پُتْ کرنا (۲) موٹا موٹا لیب لگانا - (۳) خراب کرنا -

لُتْتی - (لُتْ - تی) [صفت] (۱) لُٹکی ڈوری (۲) کیرٹی - دستار -

لُتْتی - (لُتْ - یا) [صفت] بڑی عادت والا - عادت - بتتی - لُتْتی کا ساتھ بن جانا - (۱) محاورہ] بے حد بالنگ کرنا -

لُتْتی لینا - (۱) محاورہ] دمبیاں اُڑانا (۲) آٹے یا پتھوں لینا (۳) لُٹنا (۴) سرزنش کرنا - (۵) مابوز کرنا (۶) ذلیل کرنا (۷) کپڑے اُٹارنا -

ل - ٹ

لُٹ - (لُٹ - صفت] (۱) جٹا - بالوں کی لٹھی - لٹس (۲) رتھی - ڈوری - لٹا - (صفت] (۱) ڈبلا - لاغر (۲) لٹا - لٹس (۳) پیچہ -

لٹا دھاری - (۱-۲) جٹا دھاری - جوگی - لے لے بے بالوں والا فقیر لٹا پٹا - (صفت] ٹوٹا ہوا - تباہ حال - برباد -

لٹا ہاتھی بٹورسا - (۱) مثل] اُترا کے پاس تباہی میں بھی بہت لٹا ہوتا ہے -

لٹا ہاتھی سوا لٹھ لٹے لٹے گا - (۱) مثل] گیا گنڈا میر بھی غریبوں سے بہتر ہے -

لٹانا - (لٹ - نا) [صفت] (۱) پسرنا - پھیلانا - فرش یا چارپائی پر لٹانا (۲) بچے کو لٹانا (۳) قبر میں لٹانا - (۴) کھانا لٹانا - چت کرنا -

لٹانا - (لٹ - نا) [صفت] (۱) اُڑنا - روپیہ برباد کرنا (۲) غارت

کرنا - فضول خرچی کرنا - لٹاؤ - (لٹ - نا) [صفت] (۱) لٹاؤ - کھاؤ -

لٹائی - (لٹ - نا) [صفت] (۱) لٹاؤ - لٹاؤ کی لٹائی کی چھوٹی چھوٹی لٹائی - (۲) لٹاؤ - لٹاؤ کی لٹائی کی چھوٹی چھوٹی لٹائی -

لٹاؤ - (لٹ - نا) [صفت] (۱) لٹاؤ - لٹاؤ کی لٹائی کی چھوٹی چھوٹی لٹائی - (۲) لٹاؤ - لٹاؤ کی لٹائی کی چھوٹی چھوٹی لٹائی -

لٹاؤ - (لٹ - نا) [صفت] (۱) لٹاؤ - لٹاؤ کی لٹائی کی چھوٹی چھوٹی لٹائی - (۲) لٹاؤ - لٹاؤ کی لٹائی کی چھوٹی چھوٹی لٹائی -

لٹاؤ - (لٹ - نا) [صفت] (۱) لٹاؤ - لٹاؤ کی لٹائی کی چھوٹی چھوٹی لٹائی - (۲) لٹاؤ - لٹاؤ کی لٹائی کی چھوٹی چھوٹی لٹائی -

لٹاؤ - (لٹ - نا) [صفت] (۱) لٹاؤ - لٹاؤ کی لٹائی کی چھوٹی چھوٹی لٹائی - (۲) لٹاؤ - لٹاؤ کی لٹائی کی چھوٹی چھوٹی لٹائی -

لٹاؤ - (لٹ - نا) [صفت] (۱) لٹاؤ - لٹاؤ کی لٹائی کی چھوٹی چھوٹی لٹائی - (۲) لٹاؤ - لٹاؤ کی لٹائی کی چھوٹی چھوٹی لٹائی -

لٹاؤ - (لٹ - نا) [صفت] (۱) لٹاؤ - لٹاؤ کی لٹائی کی چھوٹی چھوٹی لٹائی - (۲) لٹاؤ - لٹاؤ کی لٹائی کی چھوٹی چھوٹی لٹائی -

لٹاؤ - (لٹ - نا) [صفت] (۱) لٹاؤ - لٹاؤ کی لٹائی کی چھوٹی چھوٹی لٹائی - (۲) لٹاؤ - لٹاؤ کی لٹائی کی چھوٹی چھوٹی لٹائی -

لٹاؤ - (لٹ - نا) [صفت] (۱) لٹاؤ - لٹاؤ کی لٹائی کی چھوٹی چھوٹی لٹائی - (۲) لٹاؤ - لٹاؤ کی لٹائی کی چھوٹی چھوٹی لٹائی -

لٹاؤ - (لٹ - نا) [صفت] (۱) لٹاؤ - لٹاؤ کی لٹائی کی چھوٹی چھوٹی لٹائی - (۲) لٹاؤ - لٹاؤ کی لٹائی کی چھوٹی چھوٹی لٹائی -

لٹاؤ - (لٹ - نا) [صفت] (۱) لٹاؤ - لٹاؤ کی لٹائی کی چھوٹی چھوٹی لٹائی - (۲) لٹاؤ - لٹاؤ کی لٹائی کی چھوٹی چھوٹی لٹائی -

لٹاؤ - (لٹ - نا) [صفت] (۱) لٹاؤ - لٹاؤ کی لٹائی کی چھوٹی چھوٹی لٹائی - (۲) لٹاؤ - لٹاؤ کی لٹائی کی چھوٹی چھوٹی لٹائی -

لٹاؤ - (لٹ - نا) [صفت] (۱) لٹاؤ - لٹاؤ کی لٹائی کی چھوٹی چھوٹی لٹائی - (۲) لٹاؤ - لٹاؤ کی لٹائی کی چھوٹی چھوٹی لٹائی -

لٹاؤ - (لٹ - نا) [صفت] (۱) لٹاؤ - لٹاؤ کی لٹائی کی چھوٹی چھوٹی لٹائی - (۲) لٹاؤ - لٹاؤ کی لٹائی کی چھوٹی چھوٹی لٹائی -

لٹاؤ - (لٹ - نا) [صفت] (۱) لٹاؤ - لٹاؤ کی لٹائی کی چھوٹی چھوٹی لٹائی - (۲) لٹاؤ - لٹاؤ کی لٹائی کی چھوٹی چھوٹی لٹائی -

لٹاؤ - (لٹ - نا) [صفت] (۱) لٹاؤ - لٹاؤ کی لٹائی کی چھوٹی چھوٹی لٹائی - (۲) لٹاؤ - لٹاؤ کی لٹائی کی چھوٹی چھوٹی لٹائی -

لٹاؤ - (لٹ - نا) [صفت] (۱) لٹاؤ - لٹاؤ کی لٹائی کی چھوٹی چھوٹی لٹائی - (۲) لٹاؤ - لٹاؤ کی لٹائی کی چھوٹی چھوٹی لٹائی -

ڈاکو۔ چور۔

ل. ج

لج - (ھ۔ ا۔ مٹ) لاج کا مخفف۔

لجا - (لج۔ جا) [س۔ ا۔ مٹ] شرم۔ حیا۔ غیرت۔ لاج۔

لجاجبت - دل۔ جاجبت (ت۔ ا۔ مٹ) [عاجزی۔ منت۔ سماجت۔ خوشامد۔

لجائو - (لج۔ جا۔ ٹو) [ھ۔ صفت] [ا۔ شرم۔ والا۔ باحیا (۲) مذکر] ایک پلو اور آدمی کے ہاتھ لگانے یا گرم ہونے سے مرعجا جانا ہے۔ لاجوتی۔ چھوٹی ٹوٹی۔

لجام - (لج۔ جام) [ع۔ ا۔ مٹ] [گام کہ معترب۔ باگ۔ عنان۔

لجائنا - (لج۔ جائنا) [ھ۔ مص] [شرمانا۔ شرمندہ ہونا۔ جھینپنا۔ نجل ہونا۔

لجائو - (لج۔ جا۔ او) [ھ۔ صفت] [دیکھے لجاؤ۔ شرم۔ حیا۔ لاج۔

لجلج - (لج۔ لاج) [ت۔ ا۔ مٹ] [شطرج کا موجد (۲) شطرج یا چکر کا استاد۔ (۳) صاف کیا ہوا پارہ۔

لجلیجا - (لج۔ ل۔ جلیجا) [ھ۔ صفت] [پھللا۔ پچکار۔ ملائم۔ لیس دار۔

لججہ - (لج۔ ججہ) [ع۔ ا۔ مٹ] [دریا۔ تڑی۔ بھنور۔ منجدھار۔

لججہ آفت - (ع۔ ف۔ ا۔ مٹ) سخت مصیبت۔

لججیلا - (ھ۔ صفت) باحیا۔ شرمیلا۔ حیا دار۔

ل. ج

لج - (ت۔ صفت) [ا۔ ننگا۔ برہنہ (۲) بچپن۔ آوارہ۔ بدکار۔ بدعاش۔

لج بہاؤ - غنڈوں کا سردار۔ نہایت شہدا۔ بدعاش۔

لججا - (لج۔ ججا) [ھ۔ صفت] [۱۔ مذکر] [۲۔ لے شرم۔ بے باک (۲) بدعاش۔

لجگنا - گنڈا۔ اوباش۔ (۳) فساد کی جھگڑاؤ۔ شریر۔ (۴) اچکا۔ جھگڑا۔

لجلی -

لجلیپن - بچپن - (ا۔ مذ) [ا۔ شہداپن۔ بے شرمی۔ بے عزتی۔ بچپنی۔

لجرات - بدکاری۔

لجنا - (لج۔ چاہنا) [ھ۔ مص] [ٹیرھا کرنا۔ جھگانا۔ (۲) کمزور کرنا۔ معنوی۔

لجکر - (لج۔ چکر) [ھ۔ صفت] [ا۔ کفو۔ مہل۔ بیہودہ۔ (۲) بے وقوف۔

لجکت - (لج۔ کجت) [ھ۔ صفت] [بے لگنی (بات)۔

لجک - (لج۔ کجت) [ھ۔ صفت] [ا۔ مٹ] [ا۔ نرمی۔ ملائمت (۲) کسی چیز کا زاکت سے حرکت کرنا۔ لزش۔ (۳) جھٹکا۔ ضرب۔ بچھولا۔

لجکی - نرم۔ جھکاؤ۔

لکنتا - (لج۔ نکنتا) [ھ۔ مص] [ا۔ آوزناں ہونا۔ معلق ہونا (۲) پھانسی

لگن (۳) رکن۔ لگنا (۴) منتظر رہنا۔ امیدوار رہنا۔ (۵) مدتوں بیار

رہنا۔ لاغر ہونا۔ ڈبلا ہونا (۶) آگے نہ بڑھنا۔ پیچھے رہنا۔

لٹمس - (Litmus) [لٹ۔ مٹ] [انگ۔ ا۔ مذ] ایک نیلا رنگ جو تیزاب ٹلنے سے سرخ ہو جاتا ہے۔

لٹنا - (لٹ۔ نا) [ھ۔ مص] [ڈبلا ہونا۔ لاغر ہونا۔ کمزور ہونا۔

لٹنا - (لٹ۔ نا) [ھ۔ مص] [تباہ ہونا۔ برباد ہونا۔ چوری ہونا۔ مالی نقصان

اٹھانا۔ گھر کا اہولنا۔ دیران ہونا۔

لٹو - (لٹ۔ ٹو) [ھ۔ ا۔ مذ] [ا۔ ایک گول مخروطی کھلونا جو دیر تک گھومتا

رہتا ہے۔ سیدھ معلوم کرنے کا ایک قول (۲) کناٹہ (۳) ماشق۔

لٹو ہونا - (ا۔ محاورہ) [ا۔ عاشق ہونا۔ فریفتہ ہونا (۲) محو ہونا (۳) پکڑ

کھانا۔

لٹوانا - (لٹ۔ وا۔ نا) [ھ۔ مص] [ا۔ غارت کرنا۔ تباہ کرنا۔ صرف کرنا۔

مہنگا سودا دلوانا۔ نقصان کرنا۔

لٹورا - (لج۔ ٹو۔ را) [ھ۔ ا۔ مذ] [ا۔ ایک قسم کا پرندہ (۲) بفتح دوم) اُسکے

ہوتے بالوں کی لٹ۔

لٹوری - (لج۔ ٹو۔ ری) [ھ۔ ا۔ مٹ] [اُسکے ہوتے بالوں کی چھوٹی لٹ۔

لٹوریوں والی - ڈائن۔ پٹیل۔ جاو گرنی۔

لٹوریا - (لج۔ ٹو۔ ریا) [ھ۔ ا۔ مذکر] [جٹا دھاری۔ لٹوں والا بونگی۔

گیمٹوراز۔

لٹھ - (ھ۔ ا۔ مذ) [ا۔ موٹی کڑی۔ سونٹا۔ لاٹھی۔ (۳) چرخے یا کسی اور

چیز کی لاٹھ۔

لٹھ باز - (ھ۔ ت۔ صفت) لاٹھی سے لڑنے والا۔

لٹھ بازی - (ھ۔ ت۔ ا۔ مٹ) [ا۔ لٹھوں کی لڑائی۔ لٹھ لٹھا۔

لٹھ بندھ - (ھ۔ ت۔ صفت) لاٹھی باندھنے والا۔ (کنناٹا) اچھڑ۔

لٹھ سار دینا - (ا۔ محاورہ) سخت بات کہہ دینا۔ نہایت درشت

ہو اب دے دینا۔

لٹھا - (لٹھ۔ ٹھا) [ھ۔ ا۔ مذ] [ا۔ شہتر کڑی۔ ریلوے سیلیپر۔ (۲)

جریب کا سوال حصہ (۳) ایک قسم کا موٹی کپڑا۔

لٹھیا - (لٹھ۔ یا) [ھ۔ ا۔ مٹ] [لاٹھی کی تعصیر۔ چھوٹی چھڑی۔

لٹھیت - (لج۔ ٹھیت) [ھ۔ صفت] [ا۔ لاٹھی سے لڑنے والا۔ لٹھ باز۔

(۲) دستہ (۳) ہڈی۔

لٹھیا - (لٹھ۔ یا) [ھ۔ ا۔ مٹ] [ا۔ چھوٹا سا لوٹا۔ گڑوی۔

لٹھیا ڈلونا - (ا۔ محاورہ) [ا۔ لوٹا پانی میں گرا دینا (۲) کا مخراب کر دینا۔

بات لگا کرنا۔ (۳) نقصان اٹھانا۔ ہمت اڑنا (۴) آبرو کھونا۔

توہین کرنا۔

لٹھیا ڈوبی اے بہر داس۔ گھوڑی دانہ کھائے نہ گھاس۔

دا۔ مقولہ) کام بالکل بگڑ گیا ہے اب سہرنے کی امید نہیں۔

لٹیرا - (لج۔ ٹے۔ را) [ھ۔ صفت] [ٹوٹ مار کرنے والا۔ راہزن۔ قرآن۔

لچک آجانا۔ (ا۔ محاورہ) جھٹکا آجانا۔ ضرب آجانا۔
 لچک جانا۔ (ا۔ محاورہ) بل کھانا۔ مڑ جانا۔ لرز جانا۔ کاغذ پانا۔
 لچک دار۔ (اصفت) وہ چیز جس میں لچک ہو۔ لرزاں۔ لہوار۔
 لچکا۔ (لج۔ کا) [جھ۔ ا۔ مذ] (۱) ضرب۔ جھکا۔ بچکولا۔ (۲) موج۔ بچک (۳)
 ایک قسم کا پتلا گوشہ۔ (۴) پیش۔ لرزش۔
 لچکانا۔ (لج۔ کا) [جھ۔ مصل] نرم چیز کو ہلانا۔ لرزش دینا۔ پیش دینا۔
 (ل۔ بچک۔ نا) [جھ۔ مصل] (۱) خمیدہ ہونا۔ جھکانا۔ مڑنا۔ بل کھانا۔
 (۲) لرزنا۔ کانپنا۔ ہلنا۔ ہلکانا۔
 لچکبیلہ۔ (لج۔ کنی۔ لا) [جھ۔ صفت] لچک دار۔
 لچک لچک۔ (جھ۔ ا۔ مصل) [پکھنے کی آواز۔
 لچک لچکا۔ (لج۔ لی۔ چا) [جھ۔ ا۔ مذ] ٹھاپا۔ ساسن۔ رن وار ساسن۔
 لچکنا۔ (لج۔ ل۔ چا۔ نا) [جھ۔ مصل] ایسے وار ہونا۔ ٹھاب دار ہونا۔ لچکنا۔
 لچکنا۔ (لج۔ نا) [جھ۔ مصل] (۱) جھکانا۔ ٹیرھا ہونا۔ (۲) فروغی کرنا۔ (۳) مغلوب
 ہونا۔

لچھنا۔ (لجھ۔ جھا) [جھ۔ ا۔ مذ] (۱) سوت کی انٹی (۲) ایک زیور (۳) اچھی
 ہونے والا۔ (۴) مسلسل اور پیچیدہ پلٹے پلٹے ہوتے تار۔ (۵) بہت باریک
 کڑا ہوا پائیا اورک (۶) ریشم ایسے باریک تاروں کی ایک قسم
 جو کھانڈے تیار کی جاتی ہے (۷) آواز کی پیچیدگی۔ لچکری۔
 لچھتے دار۔ (۱-۵) [صفت] (۱) پیچیدہ۔ پیچدار۔ پیچ در پیچ (۲) سلسلہ دار
 متواتر۔ برابر (۳) ڈور سے دار (۴) حلقہ دار۔ پرت دار۔ (۵)
 مزیدے دار۔
 لچھتے دار بائیں۔ (ا۔ مصل) مسلسل اور مزیدار بائیں۔ پیچ در پیچ
 بائیں۔
 لچھی۔ (لجھی۔ ہی) [جھ۔ ا۔ مذ] (۱) دولت کی مالک۔ دھن کی
 دیوی۔ لکشمی۔ (۲) دھن۔ دولت۔ مال۔ (۳) شان و شوکت۔
 حشمت۔ (۴) دبدر (۵) سن۔ خوبصورتی۔ جمال (۶) ہو، بیٹے کی بڑی
 (۷) لڑکیاں۔ بیٹیاں (۸) رام چندر جی کی بیوی، سیتا۔
 لچھی بن آدھ کون ہے۔ (۱) [شش] دولت کے بغیر کوئی نہیں پوچھتا۔
 لچھی گھر میں آنا۔ (ا۔ محاورہ) دولت کا گھر میں آنا۔ صاحب اقبال
 ہونا (۲) گھر میں مبارک قدم ہونا آنا۔ (۳) خوش نصیب بیٹی
 پیدا ہونا۔ (۴) خوش نصیب ہونا آنا۔
 لچھی نانا کن کرنا۔ (ا۔ محاورہ) بڑھاپہ کرنا۔ کھانا شروع کرنا۔
 لچھن۔ (لچھ۔ چھن) [جھ۔ ا۔ مذ] (۱) علامت۔ نشانی۔ آثار۔ انازہ۔ (۲)
 طور۔ طریق۔ ڈھنگ (۳) کرتوت۔ فعل۔ کام (۴) عادت۔
 خلعت۔ کردار (۵) عجیب۔ بزدلی (۶) حال کی کیفیت (۷) اعمال
 کرم۔
 لچھن چھڑ جانا۔ (چھڑنا)۔ (ا۔ محاورہ) پہلی سی رونق نہ رہنا۔ مٹنا
 ویرا ڈ جانا۔ رنگ کوپ جانا۔ رہنا۔ حسن کا زوال پر ہونا۔

ل۔ح

لحاظ۔ (ل۔ حاظ) [ح۔ ا۔ مذ] (۱) نظر۔ نگاہ (۲) ادب حفظ مراتب۔
 (۳) شرم۔ حیا (۴) مروت۔ ملاحظہ (۵) خیال۔ دھیان (۶) پرہیز
 اجتناب (۷) توجہ (۸) غیرت۔ سمیت۔
 لحاظ آنا۔ (ا۔ محاورہ) مروت آنا (۳) شرم آنا۔
 لحاظ اٹھا دینا۔ (ا۔ محاورہ) بے شرم ہو جانا۔ بے عزت ہو جانا۔ بے
 حیا بن جانا۔
 لحاظ رکھنا۔ (۱) دھیان رکھنا۔ خیال رکھنا (۲) ادب کا خیال رکھنا (۳)
 شرم کرنا۔ پرہیز کرنا۔
 لحاظ کرنا۔ (ا۔ محاورہ) ادب کرنا (۲) پاس کرنا (۳) شرم کرنا۔ حیا کرنا۔ (۴)
 مروت سے پیش آنا۔
 لحاظ کھونا (دکھو دینا)۔ (ا۔ محاورہ) ادب و مروت کو قائم نہ رہنے
 دینا۔ (۲) شرم نہ رہنے دینا۔
 لحاظ نہ کرنا۔ (ا۔ محاورہ) (۱) ادب نہ کرنا۔ حفظ مراتب کا خیال نہ رکھنا
 (۲) شرم نہ کرنا۔ حیا نہ کرنا۔ (۳) مروت سے پیش نہ آنا۔ خیال
 نہ کرنا۔
 لحاظ والا۔ (ا۔ صفت) (۱) شرم و حیا والا (۲) مروت۔
 لِحاف۔ (ل۔ حاف) [ح۔ ا۔ مذ] رضائی جس میں روئی بھری ہو۔
 لِحہ۔ (ل۔ حذ) [ح۔ ا۔ مصل] [قبور۔ مزار۔ تڑپت۔ گور۔ قبر کے اندر
 کا وہ گڑھا جس میں مرد کو رکھا جاتا ہے۔
 لِحہ سے اٹھنا۔ (ا۔ محاورہ) نیا مت کے روز مردوں کا زندہ ہو کر
 قبر سے اٹھنا۔
 لِحہ میں آنا۔ (ا۔ محاورہ) مردے کو قبر میں دفن کرنا۔
 لِحظہ۔ (لج۔ ظہ) [ح۔ ا۔ مذ] [بل۔ لمحہ۔ دم کے دم۔ دم بھر۔
 لحظہ بہ لحظہ۔ (ا۔ تابع فعل) دم بہ دم۔ سعادت بہ سعادت۔ ہر دم۔

لحاظ۔ (ل۔ حاظ) [ح۔ ا۔ مذ] (۱) نظر۔ نگاہ (۲) ادب حفظ مراتب۔
 (۳) شرم۔ حیا (۴) مروت۔ ملاحظہ (۵) خیال۔ دھیان (۶) پرہیز
 اجتناب (۷) توجہ (۸) غیرت۔ سمیت۔
 لحاظ آنا۔ (ا۔ محاورہ) مروت آنا (۳) شرم آنا۔
 لحاظ اٹھا دینا۔ (ا۔ محاورہ) بے شرم ہو جانا۔ بے عزت ہو جانا۔ بے
 حیا بن جانا۔
 لحاظ رکھنا۔ (۱) دھیان رکھنا۔ خیال رکھنا (۲) ادب کا خیال رکھنا (۳)
 شرم کرنا۔ پرہیز کرنا۔
 لحاظ کرنا۔ (ا۔ محاورہ) ادب کرنا (۲) پاس کرنا (۳) شرم کرنا۔ حیا کرنا۔ (۴)
 مروت سے پیش آنا۔
 لحاظ کھونا (دکھو دینا)۔ (ا۔ محاورہ) ادب و مروت کو قائم نہ رہنے
 دینا۔ (۲) شرم نہ رہنے دینا۔
 لحاظ نہ کرنا۔ (ا۔ محاورہ) (۱) ادب نہ کرنا۔ حفظ مراتب کا خیال نہ رکھنا
 (۲) شرم نہ کرنا۔ حیا نہ کرنا۔ (۳) مروت سے پیش نہ آنا۔ خیال
 نہ کرنا۔
 لحاظ والا۔ (ا۔ صفت) (۱) شرم و حیا والا (۲) مروت۔
 لِحاف۔ (ل۔ حاف) [ح۔ ا۔ مذ] رضائی جس میں روئی بھری ہو۔
 لِحہ۔ (ل۔ حذ) [ح۔ ا۔ مصل] [قبور۔ مزار۔ تڑپت۔ گور۔ قبر کے اندر
 کا وہ گڑھا جس میں مرد کو رکھا جاتا ہے۔
 لِحہ سے اٹھنا۔ (ا۔ محاورہ) نیا مت کے روز مردوں کا زندہ ہو کر
 قبر سے اٹھنا۔
 لِحہ میں آنا۔ (ا۔ محاورہ) مردے کو قبر میں دفن کرنا۔
 لِحظہ۔ (لج۔ ظہ) [ح۔ ا۔ مذ] [بل۔ لمحہ۔ دم کے دم۔ دم بھر۔
 لحظہ بہ لحظہ۔ (ا۔ تابع فعل) دم بہ دم۔ سعادت بہ سعادت۔ ہر دم۔

لداوا۔ (ل۔وا۔فا) [ھ۔ا۔مذ] بوجھ۔ بھار۔ اسباب۔
 لداؤ۔ (ل۔وا۔او) [ھ۔ا۔مذ] بوجھ۔ بھار۔ لاؤنے کا اسباب۔
 لداؤ کی چھت۔ وہ چھت جو صرف چوڑے سے ڈاٹ لگا کر بنا دیں۔
 اُس چھت پر کڑیاں نہیں ہوتیں۔ گنبد نما چھت۔
 لدا ہے۔ (۱۔ محاورہ) گنا تیا ہے و توف (۲) بتلا۔
 لدا نا۔ لدا جانا۔ (لڈ۔نا۔ کڈ۔ جا۔ نا) [ھ۔مض] (۱) بوجھ رکھا جانا (۲)
 بھر جانا۔ پُر ہو جانا۔ (۳) چلا جانا۔ گزر جانا۔ (۴) مَر جانا۔ انتقال کر
 جانا (۵) درخت پر بہت سا پھل ہونا۔
 لڈنی۔ (ل۔ڈن۔نی) [ع۔ا۔مذ] خدا داد۔ وہ علم جو کھینے کے بغیر
 وہی یا الہام وغیرہ کے ذریعہ حاصل ہو۔
 لڈو۔ (لڈ۔ڈو) [ع۔صفت] (۱) بوجھ اٹھانے کے قابل۔ بار بھاری کے
 لائق (۲) وہ حیوان جو بار برداری کے کام آئے۔
 لڈو کرنا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) بار برداری کے قابل بنانا (۲) سواری کے قابل نہ
 نہ رکھنا۔
 لداوانا۔ (لڈ۔وا۔نا) [ھ۔مض] لاوانا کا متعدی المتعدی۔ بار کرنا۔
 لداوائی۔ (۱۔ مثن) لداوانے کی اجرت۔
 لڈھڑ۔ (لڈ۔ڈھڑ) [ھ۔صفت] (۱) موٹا اور بد وضع کا غذا یا کپڑا (۲) بھائی
 اور بھتیجا (۳) گنڈ ذہن (۴) پانی کا ایک جانور۔

ہر گھڑی۔
 لحم۔ (ع۔ا۔مذ) گوشت۔ ماس۔
 لحمیہ۔ (ع۔ا۔مذ) پروٹین۔ (Protein)۔ وہ غذائیں جن
 میں گوشت کے اجزاء ایسے جلتے ہیں جتنیہ غذا کا اساسی عنصر ہے۔
 لحم۔ (ع۔ا۔مذ) (۱) آواز (۲) سُرخمی آواز۔ خوش آوازی۔
 خوش خوانی۔
 لحم داؤدی۔ (ع۔ا۔مذ) حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز جو سر پہلے
 پن کی وجہ سے مشور ہے کہ تیا سُرخمی آواز۔
 لحموق۔ (ع۔ا۔مذ) دو یا زیادہ چیزوں کا بل جانا۔ آمیزش۔
 لحموم۔ (ع۔ا۔مذ) لحم کی جمع۔
 لحم۔ (ع۔ا۔مذ) صفت [موتلا۔ فرہ]۔
 لحم لحمیم۔ (ع۔ف) موٹا۔ تازہ۔ فرہ اندام۔ توانا۔

ل۔خ

لخ۔ (ق۔ا۔مذ) لقا کبوتر۔
 لخت۔ (ق۔ا۔مذ) لقا کبوتر۔ پارہ حصہ۔
 لخت جگر۔ (ق۔ا۔مذ) جگر کا ٹکڑا۔ (۲) اولاد۔ بیٹا۔ بیٹی۔
 لخت جگر کھانا۔ (۱۔ محاورہ) تکلیف برداشت کرنا۔
 لختہ۔ (ق۔ا۔مذ) جگے ہوئے خون کا لوتھڑا۔ ٹکڑا۔
 لخت۔ (ق۔صفت) (۱) لاغر۔ ڈبلا۔ پتلا۔ (۲) بھوک۔ وہ آواز جن
 کی شکل کے باعث نکلتی ہے۔
 لختنا۔ (ل۔خ۔ن) [ع۔ا۔مض] بھوک پیاس سے تڑپنا۔ بھوک
 سے نہ ڈال ہو جانا۔
 لختہ۔ (ل۔خ۔ن) [ع۔ا۔مض] چند خوشبودار چیزوں کا مجموعہ جو
 رطوبت و دماغ کے لیے مرہیں کو شکھاتے ہیں۔
 لخت کرنا۔ (۱۔ محاورہ) پیاس کی شدت سے پرندوں کے گلے سے
 آواز نکالنا۔

ل۔ڈ

لڈو۔ (لڈ۔ڈو) [ھ۔ا۔مذ] (۱) ڈھیلا۔ ڈلا۔ کلوخ (۲) مین یا مونگ
 پورے آسنے کی گول مٹھائی۔ (۳) گن تیا۔ نفع۔ فائدہ۔
 لڈو بانٹنا۔ (۱۔ محاورہ) کسی خوشی کی تقریب پر شیرینی تقسیم کرنا۔ خوشی
 منانا۔
 لڈو کھلانا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) مٹھائی کھلانا۔ مُنہ میٹھا کرنا (۲) رشوت دینا۔
 مُنہ بھرو دینا۔
 لڈو کمنے سے مُنہ میٹھا نہیں ہوتا۔ (۱) منہ [مض] زبری چا پوسی اور خالی
 باتوں ہی باتوں سے مطلب برآی نہیں ہوتی۔ بغیر لیے دیے کچھ
 کام نہیں چلتا۔
 لڈمی۔ (پ۔ا۔مض) ایک قسم کا پنجابی مردانہ ناچ۔

ل۔د

ل۔ذ

لذات۔ لذائذ۔ (لڈ۔ذات) [ل۔ذ۔ا۔مض] (۱) لذت کی
 جمع۔ مزے۔ ذائقے۔ لذتیں۔
 لذائذ نفسانی۔ (ع۔ا۔مض) حظ نفسانی۔ نفس کی خوشی۔ شہوتِ رستی۔

لدا پھندا۔ (ل۔د۔پھن۔دا) [ھ۔صفت] اپنی طرح لدا ہوا۔ بہت
 بھرا ہوا۔ بوجھ میں دبا ہوا۔ اسباب ساتھ لیے جوئے۔
 لدا کڈ۔ (ل۔د۔کڈ) [ھ۔ا۔مض] (۱) اُونچائی سے کسی چیز کے
 گرنے کی آواز (۲) دختوں سے پھولوں کے گرنے کی آواز۔
 (۳) گتوں میں گرنے کی آواز۔ (۴) گاتار۔ پلے درپلے۔
 لدا نا۔ (ل۔دا۔نا) [ھ۔مض] بار کرنا۔ بوجھ دھرانا۔ اسباب لدا نا۔

لذت - (لذت، لذت) [ع۔ ا۔ ممش] (۱) مزہ۔ ذائقہ۔ سواد (۲) حظ۔
 جمع۔ لذائذ۔ لذات۔
لذت آٹھانا - (۱) محاورہ (۲) مزہ لینا۔ لطف حاصل کرنا۔ حظ آٹھانا۔
 (۳) ذائقہ لینا۔
لذت آشنا - (ع۔ ف۔ صفت) لذت حاصل کرنے والا۔ لذت کا شوگر۔
لذت پرست - (ف۔ صفت) لذت اور مزے کا عاشق۔
لذت چکھنا - (۱) محاورہ (۲) مزہ چکھنا۔ مزہ لینا۔ سواد پانا۔ (۳) لطف حاصل کرنا۔
لذت دینا - (۱) محاورہ (۲) مزہ دینا۔
لذت پرستی - (ع۔ ا۔ ممش) لذت پرستی۔
لذیذ - (ل۔ ذ۔ ذیذ) [ع۔ صفت] (۱) خوش ذائقہ۔ مزیدار (۲) خوشگوار۔
 پر لطف۔ (۳) عزیز۔ پیارا۔

ط۔ ل۔ ل۔

لڑ - (لڑ۔ لڑا۔ لڑائی) (۱) لڑی۔ ہار۔ ہلسلا (۲) ڈور یا رستی کا بل۔ (۳) نظار۔ صفت (۴) پتھر کٹنا۔ واسن (۵) گرہ۔ گانٹھ (۶) وسیلہ تعلق۔ رشتہ۔
لڑ بندھنا - (۱) محاورہ (۲) تعلق ہونا۔ واسطہ ہونا۔
لڑ بندھی - (ف۔ صفت)۔
لڑ جانا - (۱) محاورہ (۲) ٹکرا جانا۔ مقابلہ ہو جانا۔
لڑ لگانا - (۱) محاورہ (۲) وسیلہ تعلق پیدا کرنا۔ بیابنا۔ شناوی کرنا۔
لڑ مرنا - (۱) محاورہ (۲) ٹکرا کرنا۔ جھگڑنا (۳) لوکر مر جانا۔
لڑ ملانا - (۱) محاورہ (۲) تعلق پیدا کرنا۔ سلسلہ پیدا کرنا۔
لڑ میں رہنا - (۱) محاورہ (۲) کسی کا طرفدار بنا رہنا۔ ساتھ دینا۔ جیب میں ہونا۔ پٹے ہونا۔

لڑا - (ل۔ لڑا۔ لڑا) [ع۔ ا۔ ممش] (۱) لڑی کا مذکر۔ بڑی کڑی۔ سبک۔
لڑاکا - (لڑا۔ لڑاکو۔ لڑا۔ لڑاکو۔ لڑا۔ لڑاکو) (۲) صفت
 جھگڑا جھگڑا تو (۲) شہریر۔ (۳) بد نحو۔ بد مزاج۔ تشرش زو۔
لڑا کا کے چارکان - (۱) (۲) (۳) جس عورت کو لڑائی کا چھکا ہو وہ لڑنے کے لیے ہمیشہ کوئی بہانہ تلاش کر لیتی ہے۔
لڑانا - (ل۔ لڑا۔ لڑا) [ع۔ ممش] (۱) لڑائی کرنا۔ جنگ کرنا۔ کشتی کرنا۔ بھڑانا۔ فساد کرنا۔ (۲) دو چیزوں کو باہم ٹکرانا۔
لڑاؤ - (ل۔ لڑا۔ لڑا) [ع۔ ا۔ ممش] (۱) لڑنے کے قابل۔ ڈور جو ایک مرتبہ کھڑا لڑنے کے قابل ہو۔ [صفت] لڑنے کے قابل۔
لڑائی - (ل۔ لڑا۔ لڑا) [ع۔ ا۔ ممش] (۱) جنگ۔ رزم۔ معرکہ۔ جھگڑا۔ فساد۔ مار پیٹ (۲) مقابلہ۔ آئنا سامنا (۳) شیخی (۴) عداوت۔ جنگی۔ ان بن۔
لڑائی باندھنا - (۱) محاورہ (۲) جنگ کی ٹھہرانا۔ دشمنی کرنا۔ جھگڑا کھڑا کرنا۔
لڑائی بھڑائی - (۱) لڑنا۔ جنگ۔ جدل۔
لڑائی اور آگ کا بڑھانا کیا - (۱) (۲) ان دونوں کا بڑھانا آسان ہے۔
لڑائی پیرا تہ آٹھانا - (۱) محاورہ (۲) لڑائی جھگڑے پر آمادہ ہو جانا۔
لڑائی پر جانا - (۱) محاورہ (۲) لام پر جانا۔ میدان جنگ میں جانا۔
لڑائی نکل جانا - لڑائی ٹھن جانا۔ (۱) محاورہ (۲) جنگ کا موقع قریب آ جانا۔ مہم سر پر آ جانا۔
لڑائی ٹھن جانا - (۱) محاورہ (۲) لڑائی کا نتیجہ ہونا۔ لڑائی ٹھہر جانا۔
لڑائی چھوڑنا - (۱) محاورہ (۲) جنگ شروع ہونا۔
لڑائی کا گھر - (۱) (۲) فساد کی جڑ۔ فتنہ پر واز۔ جھگڑا ڈالنے والا۔ فساد کرنے والا۔
لڑائی کا گھر ہانسی روگ کا گھر کھانسی - (۱) (۲) لڑائی کی ابتدا۔

ل۔ ل۔ ل۔

لڑ - (لڑ۔ لڑا۔ لڑا) [ع۔ ا۔ ممش] (۱) لڑی کا مذکر۔ بڑی کڑی۔ سبک۔
لڑاکا - (لڑا۔ لڑاکو۔ لڑا۔ لڑاکو۔ لڑا۔ لڑاکو) (۲) صفت
 جھگڑا جھگڑا تو (۲) شہریر۔ (۳) بد نحو۔ بد مزاج۔ تشرش زو۔
لڑا کا کے چارکان - (۱) (۲) (۳) جس عورت کو لڑائی کا چھکا ہو وہ لڑنے کے لیے ہمیشہ کوئی بہانہ تلاش کر لیتی ہے۔
لڑانا - (ل۔ لڑا۔ لڑا) [ع۔ ممش] (۱) لڑائی کرنا۔ جنگ کرنا۔ کشتی کرنا۔ بھڑانا۔ فساد کرنا۔ (۲) دو چیزوں کو باہم ٹکرانا۔
لڑاؤ - (ل۔ لڑا۔ لڑا) [ع۔ ا۔ ممش] (۱) لڑنے کے قابل۔ ڈور جو ایک مرتبہ کھڑا لڑنے کے قابل ہو۔ [صفت] لڑنے کے قابل۔
لڑائی - (ل۔ لڑا۔ لڑا) [ع۔ ا۔ ممش] (۱) جنگ۔ رزم۔ معرکہ۔ جھگڑا۔ فساد۔ مار پیٹ (۲) مقابلہ۔ آئنا سامنا (۳) شیخی (۴) عداوت۔ جنگی۔ ان بن۔
لڑائی باندھنا - (۱) محاورہ (۲) جنگ کی ٹھہرانا۔ دشمنی کرنا۔ جھگڑا کھڑا کرنا۔
لڑائی بھڑائی - (۱) لڑنا۔ جنگ۔ جدل۔
لڑائی اور آگ کا بڑھانا کیا - (۱) (۲) ان دونوں کا بڑھانا آسان ہے۔
لڑائی پیرا تہ آٹھانا - (۱) محاورہ (۲) لڑائی جھگڑے پر آمادہ ہو جانا۔
لڑائی پر جانا - (۱) محاورہ (۲) لام پر جانا۔ میدان جنگ میں جانا۔
لڑائی نکل جانا - لڑائی ٹھن جانا۔ (۱) محاورہ (۲) جنگ کا موقع قریب آ جانا۔ مہم سر پر آ جانا۔
لڑائی ٹھن جانا - (۱) محاورہ (۲) لڑائی کا نتیجہ ہونا۔ لڑائی ٹھہر جانا۔
لڑائی چھوڑنا - (۱) محاورہ (۲) جنگ شروع ہونا۔
لڑائی کا گھر - (۱) (۲) فساد کی جڑ۔ فتنہ پر واز۔ جھگڑا ڈالنے والا۔ فساد کرنے والا۔
لڑائی کا گھر ہانسی روگ کا گھر کھانسی - (۱) (۲) لڑائی کی ابتدا۔

ہنسی مذاق سے ہوتی ہے اور سیاری کا آغا زکھانی سے۔
 لڑائی کی لڑائی۔ (۱۔ مرث) جھگڑاؤ۔ فساد کی۔
 لڑائی لڑنا۔ (۱۔ محاورہ) جنگ کرنا۔ جھگڑا کرنا۔
 لڑائی مارنا۔ (۱۔ محاورہ) شکست دینا۔ حریت کو منسوب کرنا۔ لڑائی کرنا۔
 میدان فتح کرنا۔

لڑائی ٹول لینا۔ (۱۔ محاورہ) خواہ مخواہ جھگڑے میں پڑنا۔ ماسخ مصیبت
 میں پڑنا۔ پھیر پھانی کرنا۔
 لڑائی میں لڑو نہیں جیتے (سٹھائی) نہیں ٹپتی۔ (۱۔ مرث) لڑائی
 نحوشی کی جگہ نہیں۔ لڑائی آسان کام نہیں
 لڑائی باندھنا۔ (۱۔ محاورہ) لڑائی کا سلسلہ جاری رکھنا۔
 لڑائی ہونا۔ (۱۔ محاورہ) جنگ ہونا۔ تنازعہ ہونا۔

لڑ پڑا۔ (۱۔ مرث) ب۔ لڑا۔ (۱۔ مرث) صفت [دیکھیے، کھیلنا۔ ملائم۔ لیس دار۔
 لڑ پڑانا۔ (۱۔ مرث) ب۔ لڑا۔ (۱۔ مرث) زبان میں گفت ہونا۔ بھگانا۔
 مرگ کر ہونا۔ (۲۔ ڈنگا۔ لڑکھانا۔
 لڑ پڑھنا۔ لڑ پڑنا۔ (۱۔ مرث) خواہ مخواہ لڑنے لگانا۔ جھگڑا ٹول لینا۔
 لڑت۔ (۱۔ مرث) لڑت۔ (۱۔ مرث) جنگ کرنے کا انداز۔ کشتی۔
 لڑائی۔

لڑتی میں پڑنا۔ (۱۔ مرث) ہنڈل میں پڑنا۔
 لڑتے کے پیچھے بھاگتوں کے لڑنے۔ (۱۔ مرث) بڑول اور ڈر پڑ
 آدمی کے لیے بولا جاتا ہے۔
 لڑ جانا۔ (۱۔ محاورہ) مقابل ہونا۔ ٹکڑا جانا۔ لڑنا۔
 لڑ جانا۔ (۱۔ مرث) اطاعت قبول کرنا۔ ہتھیار ڈال دینا۔
 لڑکا۔ (۱۔ مرث) لڑکا۔ (۱۔ مرث) بچہ۔ (۲۔ مرث) بیٹا۔ پوت۔
 پسر (۲۔ مرث) نا بچہ کار۔ نادان۔

لڑکا بالال۔ (۱۔ مرث) بال بچہ۔ اولاد۔ عیال و اطفال۔
 لڑکا پٹنا۔ (۱۔ محاورہ) بے وقوفی کی حرکت کرنا۔ نادانی کی بات کرنا۔
 لڑکا بے دودھ پالنا۔ (۱۔ محاورہ) کسی نہ کسی سہارے پر اٹھنا۔ اُمید
 پوری نہ ہونے دینا۔ ٹالنا۔

لڑکا جینے بیوی اور بیٹی باندھیں میاں۔ (۱۔ مرث) تکلیف کوئی
 اٹھائے اور اظہار تکلیف کوئی کرے۔

لڑکا گود لینا۔ (۱۔ محاورہ) کسی بچے کو متبلی بنانا۔
 لڑکپن۔ (۱۔ مرث) بچپن۔ طفولیت (۲۔ مرث) کسی کا زمانہ۔ اوجھاپن۔
 چھینچھوراپن۔

لڑکپن کی باتیں۔ (۱۔ مرث) نادانی کی باتیں۔ نا سمجھی کی باتیں۔
 لڑکوں کا پاؤ (با پا) ہے۔ (۱۔ مرث) لڑکوں سے زیادہ شریہ ہے۔
 لڑکوں کا کھیل۔ (۱۔ مرث) بچوں کا کھیل۔ بچوں کا دل بھلاوا۔ (۲۔
 مرث) آسان کام۔ سہل بات (۳۔ مرث) ادنیٰ کام۔

لڑکوں کا کھیل۔ لڑکوں کا کھرن۔ (۱۔ مرث) نا سمجھ کے آگے جان
 کی کچھ قدر نہیں۔

لڑکوں کا کھیل نہیں ہے۔ (۱۔ مرث) آسان کام نہیں ہے۔ جوشا ہے۔
 لڑکے پالے۔ بال بچے۔ بیوی بچے۔ عیال و اطفال۔ کتبہ۔
 لڑکے کو منہ لگاؤ۔ لڑاؤ لڑھی کھسوتے۔ (۱۔ مرث) کینہ منہ لگانے سے
 سر پر چڑھنا ہے۔

لڑکے کے پاؤں پالنے میں پہچانے جاتے ہیں۔ (۱۔ مرث) ہونما
 بچے کا ابتدا ہی میں پتہ چل جاتا ہے۔ (۲۔ مرث) کام کا انجام شروع ہی سے
 معلوم ہو جاتا ہے۔

لڑکے والا۔ (۱۔ مرث) لڑکے کا باپ۔ دولہا کا باپ۔
 لڑکھڑانا۔ (۱۔ مرث) لڑنا۔ (۱۔ مرث) [ھ میں] ڈنگا۔ پاؤں کا پٹنا (۲۔ مرث) تھرانا۔
 (۳۔ مرث) ہلنا (۴۔ مرث) بے راہ ہونا۔ بسکنا۔ نیت بھگانا۔ ایمان میں فرق
 آنا۔

لڑکی۔ (۱۔ مرث) لڑکی (۱۔ مرث) [ھ میں] چھو کری۔ کنیا۔ بیٹی۔ دختر (۲۔ مرث) دختر۔
 کم عمر۔ نادان۔ نا سمجھ

لڑکی تیرا سیاہ کرکس، کہا میں کیسے کہوں۔ (۱۔ مرث) جہاں کسی بات
 کی خواہش ہو کر کسی نہ جاتے۔
 لڑکی والا۔ (۱۔ مرث) لڑکی کا باپ۔ ڈولہن کا باپ۔

لڑ پڑنا۔ (۱۔ مرث) لڑ کر مر جانا۔ آخری دم تک مقابلہ کرنا۔
 لڑنا۔ (۱۔ مرث) [ھ میں] جھگڑنا۔ اٹکنا کرنا (۲۔ مرث) پھڑنا۔ مقابلہ کرنا۔
 (۳۔ مرث) باہر نکلنا (۴۔ مرث) باہر صند کرنا (۵۔ مرث) زور آرائی کرنا۔ بکشتی کرنا۔ (۶۔
 مرث) مطابق ہو جانا۔ دیکھ کر دوسرے کے شہرے (۷۔ مرث) نصیب جاگ
 جانا (۸۔ مرث) لڑکھی (۹۔ مرث) کاٹنا۔ ڈسنا۔

لڑنا بھڑنا۔ جھگڑنا۔ (۱۔ محاورہ) آپس میں جھگڑنا۔ فساد کرنا۔ بحث و مکالمہ
 کرنا۔

لڑنا۔ (۱۔ مرث) [ھ میں] چھڑ جانا۔ چڑھنا (۲۔ مرث) لڑھکنا۔
 لڑنا۔ (۱۔ مرث) [ھ میں] کسی چیز کا زمین سے گر گئے ہونے چلنا (۲۔ مرث) زمین پر
 لوٹنا۔

لڑت۔ (۱۔ مرث) لڑت۔ (۱۔ مرث) [ھ میں] پہلوانی کشتی۔ زور آزمائی۔
 جنگ۔

لڑتینا۔ (۱۔ مرث) لڑنے والا۔ پہلوان۔
 لڑکھڑا کر چلنا۔ (۱۔ محاورہ) ڈنگا کر چلنا۔ مستانہ چال سے چلنا۔ ٹھوکریں
 کھا کر چلنا۔

لڑکھڑانا۔ (۱۔ مرث) ڈنگا۔ نٹے میں ادھر ادھر چھوڑنا۔
 لڑنا۔ (۱۔ مرث) [ھ میں] دیکھنے لڑنا۔ جھگڑا کرنا۔

لڑھانا۔ (۱۔ مرث) [ھ میں] [ھ میں] پھسلنا (۲۔ مرث) لڑھکانا (۳۔ مرث) بہانا۔
 گرنا (۴۔ مرث) مار کر گرانا۔ مار کر گرانا۔

لڑھکانا۔ (۱۔ مرث) [ھ میں] [ھ میں] پھسلنا۔ لڑھکنی کھانا۔ ڈنگا۔
 لڑھکننا۔ (۱۔ مرث) [ھ میں] [ھ میں] پھسلنا۔ لڑھکنی کھانا۔ ڈنگا۔
 (۲۔ مرث) لڑھکانا۔ سونا۔ (۳۔ مرث) انتقال کرنا۔

لڑھکنی۔ (۱۔ مرث) [ھ میں] [ھ میں] لڑھکنی۔ لڑھکنی۔ لڑھکنی۔

لشٹری - (لش۔ ٹری) (رق۔ ا۔ مٹ) [رٹی۔
لشکسا - (لش۔ ل۔ سا) [صفت] لعاب دار۔ لیس دار۔ چپ دار۔
لشکسانا۔ (لش۔ ل۔ سانا) [رق۔ صفت] سرسبز۔ تروتازہ۔
لشکن۔ (لش۔ کن) [رق۔ ا۔ مٹ] [لشکن]۔ عقوم [رق۔ سرخ یا سیاہ] داغ
 جو جسم پر ہوجاتے ہیں۔
لشنا - [رق۔ مٹ] [لش] آلودہ ہونا۔ [رق۔ مٹ] [لش] چسپاں ہونا [رق۔ ٹھیک
 بیٹنا۔
لشورا۔ (لش۔ سورا) [رق۔ ا۔ مٹ] [لشورا] ایک چپ دار پھل۔ سپتان۔
لشسی۔ (لش۔ سی) [رق۔ ا۔ مٹ] [لشسی] پانی بلا ہوا دودھ۔ (رق۔ مٹ) [لشسی]
 اور پانی کا مرکب پچھا چھ۔

کافل۔
لٹھکنی کھانا۔ [رق۔ محاورہ] پھل مانا۔ تلابازی کھانا۔ لٹھکنا۔
لٹھکنا۔ (لٹھ۔ نا) [رق۔ مٹ] [لٹھکنا]۔ پھلنا [رق۔ مٹ] [لٹھکنا]۔
 بندوق یا توپ کا نشانہ بننا۔ [رق۔ مٹ] [لٹھکنا]۔
لٹھی۔ (لٹھ۔ مٹ) ایک قسم کی بیل گاڑی۔
لٹھی۔ (لٹھ۔ مٹ) [رق۔ ا۔ مٹ] [لٹھی] ہار۔ موتیوں کی مالا۔ لٹھ [رق۔ مٹ] [لٹھی]۔
 سلسلہ تسلسل۔
لٹھے فوج نام سردار (سردار) کا۔ (لٹھ۔ مٹ) [لٹھے] کام کسی کا نام کسی کا۔
لٹیں سانڈ باڑی کا بھروسہ۔ (لٹھ۔ مٹ) [لٹیں] ہڑوں کی لٹائی میں چھوٹوں
 کا نقصان ہونے سے۔

ل۔ش

ل۔ز

لش - (لش۔ مٹ) [رق۔ ا۔ مٹ] [لش] کو کسی پر چھپانے کا اشارہ کرنے کی آواز۔
 ہو چھہ ہو چھہ۔
لشتم۔ (لش۔ تم) [رق۔ صفت] ناکارہ۔ صفت۔
لشتم۔ (لش۔ تم) [رق۔ مٹ] [لشتم]۔ تم۔ تم۔ تم۔ تم۔ تم۔ تم۔ تم۔ تم۔
 [رق۔ صفت] بڑی جلی طرح۔ جو کہ توں کر کے مشکل سے۔
لشکارنا۔ (لش۔ کار۔ نا) [رق۔ مٹ] [لشکارنا] کو نشانہ پر چھپانے کے لیے
 لش لش کرنا۔
لشکر۔ (لش۔ کر) [رق۔ ا۔ مٹ] [لشکر] سپاہ [رق۔ مٹ] [لشکر] بھیت بھارت۔ [رق۔ مٹ] [لشکر]
 چھاؤنی۔ کیمپ۔
لشکر آرا۔ (لش۔ آرا) [رق۔ صفت] لشکر آراستہ کرنے والا۔ لشکر تیار کرنے والا۔
لشکر اکٹھا کرنا۔ (لش۔ کر) [رق۔ مٹ] [لشکر اکٹھا کرنا] سپاہ فراہم کرنا۔ [رق۔ مٹ] [لشکر اکٹھا کرنا]
 سے آدمی جمع کرنا۔ بھیت لگانا۔
لشکر ٹوٹنا۔ (لش۔ ٹوٹنا) [رق۔ محاورہ] فوج کا دشمن پر ہچک حملہ کرنا۔
لشکر جزار۔ (لش۔ جزار) [رق۔ مٹ] [لشکر جزار] لشکر۔
لشکر جانا۔ (لش۔ جانا) [رق۔ محاورہ] فوج کو تریب دینا۔
لشکر کشن۔ (لش۔ کشن) [رق۔ صفت] بہادر۔ دلیر۔ شجاع۔
لشکر کا لشکر۔ (لش۔ مٹ) [لشکر کا لشکر] ہجوم۔ انہو۔
لشکر کشی۔ (لش۔ کشی) [رق۔ مٹ] [لشکر کشی] حملہ۔ دھاوا۔ چڑھائی۔
لشکر کی لگاڑی۔ (لش۔ لگاڑی) [رق۔ مٹ] [لشکر کی لگاڑی] لشکر کا سامنا اور
 آندھی کا انہر دونوں نقصان دہ ہوتے ہیں۔
لشکر کی بولی۔ (لش۔ بولی) [رق۔ مٹ] [لشکر کی بولی] لشکر کی زبان۔
 جس میں بھانت بھانت کی زبانیں مل گئی ہوں۔ ملی جلی زبان۔
لشکر گاہ۔ (لش۔ گاہ) [رق۔ مٹ] [لشکر گاہ] سپاہ کا پڑاؤ۔
لشکر میں اونٹ بدنام۔ (لش۔ مٹ) [لشکر میں اونٹ بدنام] خواہ مخواہ کی بدنامی۔
لشکر کی۔ (لش۔ کی) [رق۔ مٹ] [لشکر کی] سپاہی۔ فوجی۔

لزوج۔ (لش۔ زوج) [رق۔ صفت] لعاب دار۔ چپ دار۔
لزوجت۔ (لش۔ زوجت) [رق۔ مٹ] [لزوجت] چپ۔
لزوج۔ (لش۔ زوج) [رق۔ مٹ] [لزوج] چپاں ہونا۔
لزوجم۔ (لش۔ زوجم) [رق۔ مٹ] [لزوجم] واجب ہونا۔ ضرور۔ لازم۔
لزوجم مالا لزوجم۔ (لش۔ زوجم) [رق۔ مٹ] [لزوجم مالا لزوجم] ضروری کو ضروری قرار دینا۔

ل۔س

لش۔ (لش۔ مٹ) [رق۔ مٹ] [لش] لعاب۔ چپ۔
لش۔ (لش۔ مٹ) [رق۔ مٹ] [لش] واسطہ۔ سبب۔
لش۔ (لش۔ مٹ) [رق۔ مٹ] [لش] لعاب دار۔ چپ دار۔
لسان۔ (لس۔ سان) [رق۔ مٹ] [لسان] بولی۔ بھاشا۔ جمع۔
لسان العصر۔ اپنے وقت کا فصیح الکلام۔ اکبر الہ آبادی کا لقب۔
لسان العیب۔ عیب کی زبان۔ حافظ شیرازی کا لقب۔
لستان۔ (لش۔ ستان) [رق۔ صفت] [لستان] بہت بولنے والا۔ کجی۔ [رق۔ مٹ] [لستان]
 خوش گفتار۔ شیریں زبان۔ چرب زبان۔ چکنی پڑھری باتیں
 بنانے والا۔
لسانی۔ (لس۔ سانی) [رق۔ صفت] [لسانی] زبان سے متعلق۔
لسانیات۔ (لس۔ سانی) [رق۔ مٹ] [لسانیات] زبان کی ابتدا،
 ارتقا، اور اس کی تشکیل کے قانون کا علم۔ زبان کی تاریخ کا علم۔
لسٹ۔ (List) [رق۔ مٹ] [لسٹ] فہرست۔
لسٹرن۔ (Listrine) [رق۔ مٹ] [لسٹرن] [لسٹرن] [رق۔ مٹ] [لسٹرن]
 جراثیم کش۔ تربیتی۔ مرکب۔
لسرکار۔ (لس۔ سرکار) [رق۔ مٹ] [لسرکار] واسطہ۔ سردار۔

سے متعلق۔

ل۔ ط

لطافت - (ل۔ ط۔ فٹ) [ع۔ ا۔ مش] (۱) عمدگی۔ خوبی۔ خوبی (۲) نرمی۔ ملاہمت۔ پاکیزگی۔ صفائی (۳) نزاکت (۴) خوبصورتی (۵) مزہ۔ ذائقہ۔ لذت (۶) باریکی۔ نکتہ (۷) فصاحت۔

لطائف - (ل۔ ط۔ فٹ) [ع۔ ا۔ مذ] لطیف کی جمع۔ چٹکے۔ ظرافت کی باتیں۔ باریکیاں۔
لطائف اخیل - (ع۔ ا۔ مذ) جیلے۔ ہلنے، ہجو و سروں کو ناگوار نہ گذریں۔

لطائف سبتہ - (ف۔ ا۔ مذ) چھ لطیف جو سالکوں کے لیے حاصل کرنے لازمی ہیں۔ لطیف نفس، ذات کے مقام سے لفظ اللہ کا (۲) لطیف قلب جس کا عمل دل ہے۔ (۳) لطیف روح جس کا مقام سینہ میں دائیں طرف ہے (۴) لطیف سہ جس کا مقام فہمہ ہے (۵) لطیف خفی جس کا عمل پیشانی ہے (۶) لطیف خفی جس کا مقام کانہ سر ہے۔

لطائف عیبی - (ع۔ ف۔ ا۔ مذ) غیب کی نیکیاں۔ وہ نیکیاں اور عنایات جو محض خدا کی طرف سے ہوں۔

لطف - (ع۔ ا۔ مذ) (۱) عنایت۔ مہربانی (۲) خوبی۔ عمدگی۔ (۳) نرمی۔ ملاہمت (۴) لذت۔ مزہ۔ حلاوت۔ (۵) خوش طبعی۔ جمع۔ الطاف۔

لطف اٹھانا - (ا۔ محاورہ) مزہ حاصل کرنا۔
لطف نہ تھا - (ا۔ روزمرہ) مزہ اس وقت ملتا۔
لطف جانا - (ا۔ محاورہ) بے لطفی ہونا۔ بد مزگی ہونا۔
لطف دینا - (ا۔ محاورہ) پیار دینا۔ مزہ دینا۔

لطف فرمانا - (ا۔ محاورہ) مہربانی کرنا۔
لطف کن کھٹ کہ پیکانہ نشو و خلقہ بگوش - (ف۔ مقولہ)۔ مہربانی کرنا کہ عین یعنی تیرے غلام ہو جائیں۔
لطف بیہے - (ا۔ روزمرہ) خوبی یہ ہے۔ عمدگی یہ ہے۔ عجیب ہے۔

لطفی - (لطف۔ فنی) [ف۔ صفت] عمدگی۔ نیک بینی۔ پاک لطمہ - (لطف۔ فنی) [ع۔ ا۔ مذ] (۱) چھپڑ۔ طہاچہ۔ ٹکڑا (۲) دریا کا ٹھنڈا۔
لطیف - (ل۔ طیف) [ع۔ صفت] (۱) نازک۔ نرم۔ طام۔ سبک (۲) صاف۔ شفاف (۳) پاکیزہ۔ شہقا (۴) لذیذ۔ مزہ دار۔ خوب عمدہ۔ (۵) پاک۔ مقدس۔

لطیف الطح (المزاج) [ع۔ ف۔ ا۔ مذ] دل خوش مزاج۔ رحم دل۔ بالطن۔
لطیفہ - (ل۔ ط۔ فنی) [ع۔ ا۔ مذ] (۱) اچھی چیز۔ نیکی (۲) چٹکلا۔ بچپ

بات بگوف (۳) اونکا۔ عجیب۔ جمع، لطائف۔
لطیفہ چھوڑنا - (ا۔ محاورہ) اونھی بات کہنا۔ ٹگوف چھوڑنا۔
لطیفہ گو - (ع۔ ف۔ صفت) ظریف۔ خوش مزاج۔ بلذخ۔ چٹکے یا کرنے والا۔

ل۔ ع

لعاب - (ل۔ عاب) [ع۔ ا۔ مذ] (۱) ٹھوک۔ آب دہن۔ کف۔ دال۔ (۲) لیس۔ چیب۔

لعاب دار - (ع۔ ف۔ صفت) چیب دار۔ نشکا۔

لعان - (ع۔ ا۔ مذ) ایک دوسرے پر لعنت کرنا (۲) اصطلاح فقہ میں شوہر کا اپنی بیوی پر زنا کی تہمت لگانا اور پھر تاقاضی کے سامنے اپنے سچے ہونے کی چار تہم قسم کھانا اور پانچویں مرتبہ کہنا کہ اگر میں جھوٹ بولوں تو محمد پر خدا کی لعنت ہو۔ اس طرح عورت کا قسم کھانا۔ اس کے بعد نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔

لعب - (ل۔ عبت) [ع۔ ا۔ مذ] (۱) کھیل کود۔ دل بہلاوا۔ یہ ترناشا۔ جمع ملاعبت۔

لعبت - (لعب۔ بنت) [ع۔ ا۔ مذ] (۱) پتلی۔ گڑیا۔ گڈا۔ مورت۔ بت (۲) کھلونا۔ کھیل۔

لعبت چین - (ع۔ ف۔ ا۔ صفت) چینی کا گڑیا (۲) کنایتاً معشوقہ۔
لعل - (ع۔ ا۔ مذ) سُرخ رنگ جو اہر۔ (۲) معشوق کے ہونٹ۔

لعل آبدار - (ع۔ ف۔ ا۔ مذ) چمکدار ہیرا۔ (۲) کنایتاً معشوق کے ہونٹ۔

لعل اگلنا - (ا۔ محاورہ) (۱) اٹھنے سے پھول بھڑانا۔ خوش کلام ہونا۔ دہربانی کرنا۔ گالی بکنا۔

لعل بدخشاں - (بدخشاں) [ع۔ ف۔ ا۔ مذ] بدخشاں کا معنی عمدہ لعل۔

لعل پیکانی - (ع۔ ف۔ ا۔ مذ) تیر کی شکل کا ترشا جو لعل، جسے عورتیں بندوں کی طرح کانوں میں پہنتی ہیں۔

لعل زبانی - (ع۔ ف۔ ا۔ مذ) سُرخ رنگ کا لعل۔
لعل شب چراغ - (ع۔ ف۔ ا۔ مذ) لالت کو چراغ کی طرح چمکنے والا لعل۔

لعل گوڑی میں نہیں چھپتا - (امش) عمدہ و صفت چھپے نہیں رہتے۔

لعل گوں - (ع۔ ف۔ صفت) لعل کے رنگ کا۔ سُرخ۔
لعل لب - (ع۔ ف۔ صفت) سُرخ ہونٹ۔

لعل لگانا - (ا۔ محاورہ) بہار بڑھا دینا۔ شان بڑھا دینا۔
لعل لگے ہونا - (ا۔ محاورہ) اونکا ہونا۔ متناز ہونا۔

لعل لگنا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) قیمتی ہونا۔ انمول ہونا (۲) انوکھا پن ہونا۔
لعل نامسخت۔ (ع۔ ف۔ ا۔ مذ) بن چھدا لعل۔ وہ لعل جس میں سوراخ نہ ہو۔
لعلن۔ (ع۔ ا۔ مرث) لعنت۔ کلامت کرنا۔ نفرین۔ پھینکار۔ دھنکار۔
 جیڑگی۔ سرزنش۔
لعلن طعن۔ (ع۔ ا۔ مرث) لعنت۔ طامنت۔ بڑا بھلا۔ نفرین۔ پھینکار۔
لعنت۔ (لغ۔ نشت) (ع۔ ا۔ مرث) پھینکار۔ نفرین۔ سرزنش۔ دھنکار۔
 سخت سست۔ بڑا بھلا۔
لَعْنَةُ الْعَرَبِ الْكَافِرِينَ۔ (ع۔ معقولہ) جھوٹوں پر خدا کی لعنت۔
لعنت برسا۔ (۱۔ محاورہ) بے رونقی ہونا۔ (۲) ہر شخص کا لعنت کرنا۔
لعنت بکار شیطاں۔ (ع۔ ف۔ ت۔ روزمرہ) کسی کام سے بیزاری ظاہر کرنے کے لیے کہا جاتا ہے۔
لعنت بھیننا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) نفرین کرنا۔ بڑا بھلا کرنا۔ (۲) چھوڑنا۔
 ترک کرنا (۳) بددعا دینا۔ کوسنا۔
لعنت بھیجنا نام نہ لو۔ (۱۔ مثل) ذکر نہ کرو۔ جانے دو۔
لعنت کا طوق۔ (۱۔ مذ) رسوائی۔ ذلت۔
لعنت کا مارا۔ (۱۔ صفت) مردود۔ بد نصیب۔ بد بخت۔
لعنت طامنت کرنا۔ (۱۔ محاورہ) بڑا بھلا کرنا۔ سخت سست کرنا۔
 شرمندہ کرنا۔ ذلیل کرنا۔ دھنکارنا۔ خیر لینا۔
لعنتی۔ (لغ۔ ن۔ تی) (ف۔ صفت) مردود۔ بد نصیب۔ بد بخت۔
لعوقی۔ (ل۔ عوق) (ع۔ ا۔ مذ) چلنے کی لیس دار دوا۔ چٹنی۔
لعین۔ (ل۔ عین) (ع۔ صفت) ملعون۔ مردود۔ لعنتی۔ بد بخت۔
 دوزخی۔ بہنئی۔

استعمال کے حکایت کا اظہار کرنا۔
لغزب۔ (ع۔ ا۔ مرث) ممتا۔ بھارت۔ بیہیلی۔ چیتان۔
لغزش۔ (لغ۔ زیش) (ف۔ ا۔ مرث) (۱) پھسلنا۔ پھسلاہٹ۔ (۲) لرزش۔ جنبش۔ کپکپی (۳) خطا۔ سہو۔ غلطی۔ بھول چوک۔ گمراہی۔
 ضلالت۔
لغزش آنا۔ (۱۔ محاورہ) پھسلنا۔ بہکنا۔ لڑکھانا۔ استغفال میں فرق آنا۔ گمراہ ہونا۔ بیان میں فرق آنا۔
لغزش کرنا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) گمراہ ہونا۔ بہکنا (۲) ڈگمگانا۔ لڑکھانا۔ (۳) کانپنا (۴) بھول چوک کرنا۔
لغزش کھانا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) ڈگمگانا۔ پھسلنا (۲) بہکنا۔ گمراہ ہونا۔
لغزو۔ (ع۔ صفت) (۱) بیہودہ۔ واہیات۔ نامعقول۔ مہمل۔ بے معنی۔ بے کار۔ بے فائدہ (۲) بکواس۔ نرٹل۔ جھک۔ لایعنی بات۔
 جمع : لغویات۔
لغوبکنا۔ (۱۔ محاورہ) بیہودہ بکنا۔ واہیات باتیں زبان پر لانا۔ بے معنی باتیں کہنا۔
لغوی۔ (ل۔ ع۔ وی) (ع۔ صفت) لغت سے منسوب۔ اصلی۔
لغویات۔ (لغ۔ و۔ یاشت) (ع۔ ا۔ مرث) لغت کی جمع۔ بیہودہ باتیں یا افعال، حرکات۔
لغویت۔ (لغ۔ و۔ یشت) (ع۔ ا۔ مرث) بیہودگی۔ جمع لغویات۔

ل۔ف

لف۔ (ع۔ صفت) لپٹا ہوا۔ تکیا ہوا۔ شہل۔ فسک۔
لف و لشر۔ (ع۔ ا۔ مذ) لغوی معنی۔ لپٹنا اور پھیلنا۔ علم بیان کی اصطلاح میں، وہ صفت جس میں اول چند چیزوں کا ذکر کریں پھر چند اور چیزیں بیان کریں جو پہلی چیزوں سے نسبت رکھتی ہوں۔ مگر اس طرح کہ ہر ایک کی نسبت اپنے منسوب الیہ سے مل جائے۔
لغاظ۔ (لغت۔ ناظ) (ع۔ مبالغہ۔ صفت) خوش گو۔ خوش بیان۔ شیریں زبان (۲) مبالغہ آمیز باتیں کرنے والا۔
لغاطی۔ (لغت۔ فا۔ لظی) (ع۔ ا۔ مرث) فصاحت۔ خوش بیانی (۲) لسانی۔ بکواس۔ بک بک (۳) شیخی۔ ڈینگ۔
لغافہ۔ (ل۔ فا۔ فہ) (ع۔ ا۔ مذ) (۱) وہ چیز جو کسی چیز پر لپٹی جائے (۲) وہ کاغذ کا غلاف جس میں خط وغیرہ بند کیا جاتا ہے (۳) بناوٹ۔ دکھاوا۔ ظاہری سامان۔ دھوکا۔ غلطی۔ ملمع (۴) جلد لوٹ جانے والی چیز (۵) بھید۔ لاز۔
لغافہ بنانا۔ (۱۔ محاورہ) ظاہری ٹیپ ٹاپ کرنا۔ دھوکا دینا۔

ل۔ع

لغات۔ (ل۔ لغات) (ع۔ ا۔ مذ) لغت کی جمع (۱) الفاظ (۲) زبانیں۔ (۳) فرہنگ۔ ڈکشنری۔ وہ کتاب جس میں حروف تہجی کے اعتبار سے الفاظ اور ان کے معانی درج ہوں۔
لغام۔ (ل۔ نام) (ف۔ ا۔ مرث) لگام۔ عنان۔
لغایات۔ (ل۔ لغایت) (ع۔ تابع فعل) آئینہ نگار۔ انجمن نگار۔
لغت۔ (ل۔ لغت) (لوی۔ زبان۔ لفظ۔ فرہنگ۔ ڈکشنری۔ وہ کتاب جس میں الفاظ اور ان کے معانی و مطالب وغیرہ درج ہوئے۔
 جمع لغات۔
لغت تراش۔ (ع۔ ف۔ صفت) لسان۔ لفاظ۔ لغت بنانے والا
لغت چھاڑنا۔ (۱۔ محاورہ) عیثت جتنا۔ عزیز معروف اور مشکل الفاظ بولنا۔
لغت چھانٹنا۔ (۱۔ محاورہ) نہایت مشکل اور ناموزوں الفاظ

لغافہ ستر ستر - (ع. ف. ل. ا. ذ) وہ لغافہ جسے ستر لگا کر بند کیا گیا ہو۔

لغافہ کرنا - (ا. محاورہ) دکھا دکھانا، ہلکا سا نول یا مے چڑھانا۔
لغافہ کھل جانا - (ا. محاورہ) چینی کے سنہنوں کا معلوم ہو جانا۔ بھید فاش ہو جانا۔ فریب کھل جانا۔

لفٹ - (ل. فٹ) (Lift) [انگ. ا. مذ] مشین جس کے ذریعے لوگ ایک منزل سے دوسری منزل پر جلتے ہیں۔

لفٹننٹ - (لفٹ. ٹنٹ) [انگریزی (Lieutenant)] کا موتر۔ (ذ) نائب حاکم۔ کپتان کے ماتحت۔ ایک فوجی افسر۔ کپتان کا نائب۔ بحری فوج کا افسر (۳) (وطن) بڑا حاکم۔

لفظ - (ع. ا. مذ) کلمہ۔ شبہ۔ اہت۔ لغت۔ وہ بالعمنی کلمہ جو منہ سے نکلے۔ جمع: الفاظ۔

لفظ بلند - (ع. ف. ل. ا. ذ) صفت بحرف۔ ایک۔ ایک لفظ۔

مہو بہو - تفضیل وار۔ صاف صاف۔
لفظاً - (لفٹ. ظن) [ع. تابع فعل] لفظ کے اعتبار سے۔
لفظی - (لفٹ. ظی) [ع. صفت] اصلی حقیقی۔ کنوی۔ باتوں کی۔

الفاظ کی۔

لفنگ - (لفنگا۔ ل. ننگ) [انگ. ا. فن. گ. ا. ا. ر. صفت] (ا. مذ) [انگ. ا. مذ] پچا۔ شٹنا۔ گنڈا۔ بد معاش۔ بد چلن۔ بد عزت۔ بی بی باز۔

لغیف - (ع. صفت) لپٹا ہوا۔ تہ کیا ہوا (۲) جمع کیا ہوا (۳) پچھڑا۔ (۴) مختل لوگوں کا ہجوم۔

لغمان - (لقن. مان) [ع. ا. مذ] (۱) ایک مشہور مجسم جس کی حکایات اولیٰ اور نصاب مشہور ہیں اور ان کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا ہے (۲) جانا بڑا۔ دانہ۔ نہایت بجزیرہ کار آدمی۔

لغمان کو حکمت سکھانا - (ا. محاورہ) غفلت کو تدبیر بتانا۔ لغو کام کرنا۔
لغمتہ - (لقن. متہ) [ع. ا. مذ] نوالہ۔ کھانے کی وہ مقدار جو ایک دفعہ منہ میں ڈالی جائے۔

لغمتہ اجل ہونا - (ا. محاورہ) مرجانا۔
لغمتہ تہ - (ع. ا. مذ) عمدہ اور لذیذ غذا۔

لغمتہ حرام - (ع. ف. ل. ا. ذ) حرام کی آمدنی۔ حرام کا مال
لغمتہ حلق سے نہ اترنا - (ا. محاورہ) بہت ناگوار گزرنا۔

لغمتہ چرب - (ف. ل. ا. مذ) لذیذ خوراک۔

لغمتہ دینا - (ا. محاورہ) (۱) نوالہ دینا (۲) دوسرے کی بات میں بولنا (۳) کسی کو قرآن شریف یا اور کوئی چیز سناتے وقت بیٹوں چوک بتانا (۴) قہر میں گور بار و ڈوان دھ، رشوت دینا۔

لغمتہ کر جانا - (ا. محاورہ) نکل جانا۔ چٹ کر جانا۔ اڑا جانا۔
لغمتہ را - (ل. فنڈ. را) [ا. ر. صفت] (۱) مذکر [بد معاش۔ پچا۔ شٹنا۔ گنڈا۔ بد چلن۔

لق ووق - (ف. صفت) [اصل ترکی لغ و ووغ، چٹیل میدان، بھرا۔ بیابان، ہوکا مقام۔ سنان جگہ۔ ویرانہ۔
لق ووق میدان - (ف. صفت) (ذ) وہ میدان جہاں گاس پاست اور دزخت وغیرہ کا نام نہ ہو چٹیل میدان۔

لقوہ - (لقن. وقہ) [ع. ا. مذ] ایک مرض جس میں منہ شیر دھا ہونا اور چہرہ پھر جانا ہے۔

لقوہ مار جانا - (ا. محاورہ) لقوہ کا مرض ہو جانا۔ منہ پھر جانا۔ منہ لیر دھ ہو جانا۔

لقفہ - (لقن. قفہ) [ا. ر. صفت] [دیکھیے قفا (۱) بد معاش۔ شٹنا۔ (۲) بادل کا ٹکڑا۔

ل. ق

لقن - (ف. صفت) جس میں بال نہ ہوں۔
لقا - (لقن. قا) [ا. ر. مذ] ایک قسم کا بوتر، جو اکثر اپنی گردن دم کے ساتھ لگتے دکھتا ہے۔

لقا - (ل. قا) [ع. ا. مرث] (۱) دیدار۔ ملاقات (۲) چہرہ۔ صورت۔ شکل۔

لقفا - (لقن. فا) [ا. ر. صفت] پچا۔ شٹنا۔ بد معاش۔

لققات - (لقن. قات) [ا. ر. صفت] نہایت ڈبلا۔ (فارسی لگات) لغت - (ل. قتب) [ع. ا. مذ] وہ نام جو کسی خاص مدح یا ذم کے سبب پڑ گیا ہو۔ جمع: القاب۔

لقطہ - (لقن. طہ) [ع. ا. مرث] راستے سے اٹھائی ہوئی گرمی پڑی چیز۔

لقلق - (لقن. لق) [فارسی لگ لگ کا مترادف۔ ا. مذ] سارکس۔
لقلقہ - (لقن. ل. ققہ) [ع. ا. مذ] (۱) سارکس کے زور سے بولنے کی آواز۔ (۲) کنیشا [ترعب۔ قاب۔ حوصلہ۔ ہمت۔ ظرف۔ (۳) لہجہ۔

ل. ک

لک - (ف. ل. ا. مذ) (۱) روغن۔ وارنش۔ (۲) کو۔ شعلہ۔ ٹوکا۔
لکاتہ - (لک. کا۔ تہ) [ا. ر. مرث] [بے حیاء اور فاحشہ عورت۔

لکان - (ل. کان) [ا. ہ۔ مذ] کشتی کا ایک داؤ جس میں حریت کو متکا کر نیچے لایا جاتا ہے۔

لکانا - (ل. کان) [ا. ہ۔ بمع] اچھپانا۔ پوشیدہ کرنا۔
لگٹی - لگھٹی - لگت - (ل. لگتہ۔ لٹی) [ا. ہ۔ مرث] (۱) اودھ جلی کٹھی۔ جس سے آگ کر دیتے ہیں۔ آگ لگاؤ۔ عورت۔ لڑائی کر دینے والی

عورت۔
 لکچر۔ (Lecture) (دکھت۔ پخت) (نگ۔ ۱۔ مذ [۱۱] درس۔ سبزی۔
 وعظ۔ تقریر۔ زبانی مضمون۔ آپریش۔
 لکچرار۔ (Lecturer) (دکھت۔ ج۔ لار) (نگ۔ ۱۔ مذ [۱۱] واعظ۔
 (۲) درس دینے والا (۳) آپٹیک۔ تقریر کرنے والا۔ مقرر۔
 لکڈ۔ (کڈ) (فت۔ امٹ) [لات۔ شوکر۔ دولتی۔
 لکڈ زن۔ (فت۔ صفت) لائیں مارنے والا۔
 لکڈ کوب۔ (فت۔ ۱۔ مذ) [لات مانا۔ منرب۔
 لکڈ کنے۔ (ق) [خدا۔
 لکڈ۔ (دکھت۔ کڈ) (ہ۔ ۱۔ مذ) شستیر۔ بڑی کڑی۔ لٹھا۔
 لکڈ بگھا۔ (ل۔ گڑ۔ بگھ۔ ہا) (ہ۔ ۱۔ مذ) بھیر ٹیکے کی قسم کا ایک جنگلی جانور۔
 چرخ۔ گڈ بگھا۔
 لکڈ ہارا۔ (دکھت۔ کڈ۔ ہا) (ہ۔ ۱۔ مذ) کڑیاں بیچنے والا۔ کڑیاں چیرنے
 پھاڑنے والا۔
 لکڑی۔ (دکھت۔ ٹڑی) (۱۔ ۱۔ مش [۱۱] ہیزم۔ کاٹھ۔ چوب (۲) چھڑی۔
 ہاتھ میں رکھنے کی کڑی۔ لاطھی۔ عصا۔ سوٹا (۳) سہارا۔ مدد۔
 آسرا (۴) پٹا۔ چوب بازی (۵) کٹا پٹا۔ سخت۔ کڑا۔
 لکڑھی پکڑنا۔ (۱۔ محاورہ) سہارا دینا۔
 لکڑھی پھینکنا۔ (۱۔ محاورہ) پٹا پھینکنا۔ چوب بازی کرنا۔
 لکڑھی کے بل بندر یا ناچے۔ (۱۔ امٹ) ہر شخص اپنے حماقتی کے بل پر گوتا
 ہے (۲) ڈر کے سبب کچھ کرنا پڑتا ہے۔
 لکڑھی مارے پانی جڈا نہیں ہوتا۔ (۱۔ امٹ) رشتہ داروں میں
 دوسروں کے برکتے سے بھگدا ہو جی جائے، بھیر بھی وہ ایک ہو
 جاتے ہیں۔
 لکڑیاں چلانا۔ (۱۔ محاورہ) لاطھیوں سے مار پیٹ۔
 لکڑیاں دینا۔ (۱۔ محاورہ) مُردے کو چلانا۔ چنانا میں آگ دینا۔ کریا کو کم کرنا۔
 لکڑیاں کھانا۔ (۱۔ محاورہ) لاطھیوں سے مار کھانا۔ لکڑیوں سے پینا۔
 لکشن۔ (س۔ ۱۔ مذ) راجا رام چند راجے کے چوٹے بھائی کا نام، جس نے
 بن یاس میں وفاداری سے ان کا ساتھ دیا۔
 لکشنی۔ (دکھت۔ جی) (س۔ ۱۔ مش [۱۱] دیکھیے کھی۔ ۱) دولت کی دیوی۔
 دولت (۲) عرض قسمت لڑکی۔
 لک لکٹ۔ (۱۔ مش [چک۔ روتی۔
 لک لکانا۔ (دکھت۔ ل۔ کانا) (ق) بمص [پاس یا گئی سے بے دم ہونا۔
 لک لکایہ۔ (دکھت۔ ل۔ کایہ) (ق) ۱۔ مذ [لغز۔
 لک لک کرنا۔ (ق) بمص [چکنا۔
 لک لکنا۔ (ق) بمص [چکنا۔
 لکنا۔ (دکھت۔ نا) (ہ بمص [پوشیدہ ہونا۔ چھپنا۔ معنی ہونا۔
 لکنت۔ (دکھت۔ رنت) (ع۔ ۱۔ مش [ہلاک۔ رنگ۔ رنگ کو بولنے کی حالت
 لکجن۔ (ل۔ کن۔ جین) (ہ۔ ۱۔ مذ) وہ مُردہ جس کی نسبت خیال ہے کہ

اُس کے لگانے سے آدمی دوسروں کی نظروں سے پوشیدہ ہو جاتا ہے۔
 (دکھت۔ آجن۔)
 لکھ۔ (دکھت۔ کھ) (فت۔ ۱۔ مذ) لکھنا۔ پارچہ (عام طور پر برابر دھوئیں کے
 ٹکڑے کے لیے مستعمل ہے)
 لکھ۔ (۱۔ ۱۔ مذ) لاکھ کا محقق۔ سو ہزار کی تعداد۔ (مرکبات میں مستعمل ہے)
 لکھ بٹش (وانا)۔ (۱۔ صفت) نہایت سخی۔ دانا۔ قیاض۔ (۲) قطب الدین بیگتہ
 کا لقب۔
 لکھ پتی۔ (۱۔ صفت) وہ شخص جس کے پاس لاکھ روپیہ ہو۔ دھنی۔ دو تلمند۔
 امیر۔
 لکھ پڑا۔ (۱۔ مش) وہ باغ جس میں بہت سے پتھروں (خصوصاً)
 آموں کے۔
 لکھ لٹ۔ (۱۔ صفت) بہت بڑا فضول خرچ۔ شریف۔ کھاؤ اڑاؤ۔
 لکھ وٹا۔ (۱۔ محاورہ) تخریر کر دینا۔ نوشتہ۔ نقد کر دینا۔
 لکھ رکھنا۔ (۱۔ محاورہ) یاد رکھنا۔ یقین رکھنا۔
 لکھ رکھو۔ (۱۔ متولہ) یاد رکھو۔ یقینی سمجھو۔
 لکھا۔ (دکھت۔ لکھ) (ل) کھا (ہ۔ ۱۔ مذ) نوشتہ۔ کھا ہوا۔ قضا۔ بھگا۔ تقدیر قسمت
 شدنی امر بغیر تشدید معنی ہے۔
 لکھا آگے آنا۔ (۱۔ محاورہ) قسمت کا کھا پیش آنا۔
 لکھا پڑھا۔ (۱۔ صفت) تعلیم یافتہ۔ خواندہ۔
 لکھا پڑھی۔ (۱۔ مش) نوشتہ۔ خواندہ۔ تخریر۔ دستاویز۔
 لکھا پڑا کرنا۔ (۱۔ محاورہ) مصیبت برداشت کرنا۔ تجربے دن کاٹنا۔
 لکھے کو روٹنا۔ (۱۔ محاورہ) قسمت کو کوسنا۔ تقدیر کا شکی ہونا۔
 لکھانا۔ (ل۔ کھانا) (ہ بمص [۱۱] لکھوانا۔ تخریر کرنا (۲) تخریری اقرانہ
 لینا (۳) مشن کرنا۔
 لکھائی۔ (ل۔ کھا۔ ای) (ہ۔ ۱۔ مش [۱۱] تخریر لکھنے کا کام (۲) لکھنے کی
 مزدوری۔ لکھنے کی اجرت۔
 لکھلے ہے۔ (۱۔ روزمرہ) روایت ہے۔ تخریر ہے۔
 لکھاڑی۔ (۵۔ صفت) لکھنے والا۔ مصنف۔
 لکھت۔ (ل۔ کھت) (ہ۔ ۱۔ مش [۱۱] تخریر۔ نوشتہ (۲) اقرانہ
 (۳) دستاویز۔
 لکھت پڑھت کرنا۔ (۱۔ محاورہ) تخریری عمدہ و پیمان ہونا۔ باہمی
 دستاویز لکھی جانا۔
 لکھن۔ (ق) ۱۔ مش [چال۔ روتیہ۔
 لکھنا۔ (دکھت۔ نا) (ق) بمص [دیکھنا۔
 لکھنا۔ (دکھت۔ نا) (ہ بمص [تخریر کرنا۔ لکھائی کرنا (۲) کتابت کرنا (۳)
 کسی کی قسمت میں مقرر کرنا۔
 لکھنا پڑھنا۔ (۱۔ محاورہ) نوشتہ و خواندہ۔ لکھائی پڑھائی۔
 لکھند۔ (ل۔ کھند) (ق) ۱۔ مش [تلا بازی۔
 لکھنی لکھنی۔ (دکھت۔ بی) لیکھ۔ (بی) (ہ۔ ۱۔ مش) [کک۔ قلم۔

چلنا۔ چل کر چلنا۔ (۲) دوستی بڑھانا۔ یار بنانا۔ محبت جٹانا۔ (۳) پلٹنا۔ چٹھنا۔

لگ لپٹ کر۔ (۱) تابع فعل، کوشش کر کے۔ محنت کر کے

لگا۔ (۱) لگا [کھ۔ صفت] (۱) بلا ہوا۔ ساتھ۔ ہمراہ۔ پیوستہ۔ چسپاں۔ (۲) گلاسٹر (۳) جلا ہوا۔ (۴) عادی۔ شوگر۔

رگ بندھا۔ (۱) صفت (۱) سطح۔ فرمانبردار (۲) حق رکبیا ہوا۔ ٹھہرایا ہوا (۳) آشنا۔ یار (۴) متعلق۔ وابستہ (۵) قیدی۔ پابند۔ گرفتار۔

لگاتا۔ (۱) مرثیہ) پیے در پیے برابر ملتا ہوا۔

لگا تو تیرا نہیں تو تیرا لگا۔ (۱) مثل) ہو گیا تو اچھا نہ ہو تو خیر۔ آدمی کو بہت نہیں ہارنی چاہیے چاہے کام ہو یا نہ ہو۔

لگا لگائے (رکھنا۔ (۱) محاورہ) (۲) بجا رکھنا۔ اٹھا رکھنا۔ (۳) امید دار رکھنا۔ مشغول رکھنا۔ مصروف رکھنا (۲) پاس سے جدا نہ ہونے دینا۔ لگا رہنا۔ (۱) محاورہ) (۲) ساتھ رہنا۔ پیچھے رہنا۔ چھوڑا رہنا (۳) مصروف رہنا۔ (۴) جوارہ بنا۔

لگا سو جگا۔ (۱) مثل) جو کام شروع ہوا وہ اتنا کو پہنچا۔ زمانے کو گذرتے دیر نہیں لگتی۔

لگا لانا۔ بھگائیے آنا۔ بھلنے سے لے آنا۔ دم دلا سا دے کر لے آنا۔

لگا لگایا۔ (۱) صفت (۲) بنا بنا یا۔ بڑھا بڑھا یا۔ جمایا یا (۳) صرف شدہ (۳) آراستہ۔ درست۔

لگالے جانا (چلنا) (۱) محاورہ) دم دلا سا دے کر ساتھ لے جانا۔ پھسلا کر لے جانا۔

لگایینا۔ (۱) محاورہ) (۲) ساتھ کر لینا۔ یار بنا لینا (۳) مشغول کر لینا (۴) اپنے مطلب کا بنا لینا (۴) شروع کر لینا (۵) گنتی میں شامل کر لینا۔ تجرا کر لینا۔ محسوب کر لینا۔

لگا مارنا۔ (۱) محاورہ) عیب دھرنا۔ نہمت لگانا۔ الزام رکھنا۔ بدنام کرنا۔ لگا ہوا۔ (۱) صفت) بلا ہوا۔ پاس (۲) مصروف (۳) دوست۔ یار (۴) راستہ۔ متعلق (۵) عادی شوگر (۶) سدا ہوا۔ (۷) داغدار۔ دائمی۔

لگاتہ ہونا۔ (۱) محاورہ) کچھ مناسبت نہ ہونا۔ بہت فرق ہونا۔

لگاتہ نہیں۔ (۱) مغزول) کچھ مناسبت نہیں۔ بڑا فرق ہے۔

لگا۔ (لگت۔ گ) [کھ۔ ۱۔ ۱۰۔ مذ] (۱) لگ پیار۔ محبت۔ عشق۔ دوستی۔ تعلق۔ واسطہ۔ نسبت۔ ربط (۲) برابر۔ ہم سہمی (۳) ڈھنگ۔ ڈول (۴) شروع۔ آغاز (۵) پہنچ۔ رسائی۔ دخل (۶) ناؤ کھینے کا چتو۔ (۷) لمبا پائس۔

لگا سگا۔ (۱) محبت۔ رابطہ۔ آشنائی۔ میل جول۔ قنیت۔ رسائی۔

لگا کھانا۔ (۱) محاورہ) (۲) مطابقت کھانا (۳) ہم قہ ہونا۔ برابر کا ہونا۔ (۴) نسبت رکھنا۔

لگا لگانا۔ (۱) محاورہ) (۲) ابتدا کرنا۔ پہل کرنا (۳) آشنائی کا الزام لگانا (۴) آشنائی کرنا۔

لکھوانا۔ (لکھ۔ واٹ) (۱) مرثیہ [تحریر۔ لکھوانا۔ (۲) لکھنا۔ (۳) لکھنا کا متعدی متعدی۔ لکھوانا۔ (۴) مرثیہ جو عورتیں ہونٹوں پر لگاتی ہیں (۵) لاکھ کی نمونہ فون یا پارسوں پر لگاتی جاتی ہے۔

لکھوری۔ (۱) لکھ۔ ری) (۲) مرثیہ [آپت قسم کی چھوٹی اینٹ (۳) ایک قسم کی چھوٹی بھڑ۔ کھاری۔

لکھتی۔ (لکھ۔ کھی) (۱) صفت [کھتی۔ لاکھ روپے کی حیثیت والا۔ لکھے نمونے پر طے خدا (۲) منٹ) ایسی تحریر جو کسی سے پڑھی نہ جاسکے۔

لکھے نہ پڑھے نام محمد فاضل۔ (۱) مثل) عالمانہ وضع رکھنے والا۔ جاہل۔ جسے لکھنا پڑھنا تو نہ آتا ہو، کم وفصیلت کا دعویٰ کرے ہو۔

لکھیرا۔ (۱) لکھ۔ رکے۔ (۲) مذ] لاکھ کا کام کرنے والا۔ لاکھ کی چیزیں بنانے والا۔

لکیر۔ (۱) لکیر) (۲) محاورہ) [خط۔ لائن۔ سلسلہ۔ قطار۔ سطر (۳) پرانا دتو رسم قدیم (۴) محاورہ) پرنسے طریقے کے مطابق چلنا۔ پانی رسوں کا یا بند رہنا۔

لکیر بیٹھا۔ (۱) محاورہ) پیلٹی رسم پر چلنا (۲) فنون اور بے سود کام کرنا۔ (۳) افسوس کرنا۔ اٹھنے مٹنا۔

لکیر کا فقیر۔ (۱) مذ] پانی رسم کا پاندہ شخص جو اپنی عقل سے کام لے (۲) کسی شے پر فریفتہ۔

لکیر کھینچنا۔ (۱) محاورہ) (۲) خط کھینچنا۔ ڈول کرنا (۳) نشان لگانا (۴) حد بانہنا (۵) فلم پھیرنا۔ مشانا (۶) توبہ کرنا۔ کان پکھانا۔ عمد کرنا۔ (۷) ان مہمی میں ناکامی سے زمین پر لکیر کھینچنا متعلق ہے۔

لکیرنا۔ (۱) لکیر۔ (۲) مذ] لکیر یا خط کھینچنا (۳) منتر سے مدد کرنا (۴) ڈول یا خاکہ بنانا۔

ل-گ

لگ۔ (۱) حرف ربط (۲) قریب۔ پاس۔ تنگ۔ مرکبات میں متصل ہے (۳) لگانا کا امر۔

لگ بھگ۔ (۱) تابع فعل) قریب قریب۔ ملتا جلتا۔ مُشابہ۔

لگ بیٹھنا۔ (۱) محاورہ) قریب ہو کر بیٹھنا۔ بل کے بیٹھنا۔

لگا جانا۔ (۱) محاورہ) ناقص کیے جانا پیچھے پڑا رہنا۔

لگ جانا۔ (۱) محاورہ) پھود جانا (۲) چوٹ آجانا (۳) مائل ہو جانا۔ رجوع ہو جانا (۴) شروع ہو جانا۔ (۵) اتر کر جانا۔ (۶) کھٹک جانا۔ چھوہ جانا۔ (۷) بل جانا۔ (۸) بھر جانا۔ (۹) کپڑے وغیرہ کو کھا جانا۔ (۱۰) عادت ہو جانا۔

لگ چلنا۔ (۱) محاورہ) (۲) ساتھ ہولینا۔ ہمراہ چلنا۔ پاس ہو کر چلنا۔ چھوہ کر

لگی لپیٹ رکھنا۔ (۱- محاورہ) (۱۱) طرفداری کرنا۔ رمایت کرنا (۲) صاف نہ کرنا۔
 ٹنک و شبہ میں رکھنا۔
 لگی لگائی۔ (۱- صفت) لگی ہوئی۔ طے شدہ۔ مُقررہ۔
 لگی میں اور لگانا۔ (۱- محاورہ) مصیبت اور مصیبت ڈالنا۔
 لگی نہ رکھنا۔ (۱- محاورہ) (۱۱) لاگ پیٹ نہ رکھنا۔ پاس نہ رکھنا۔ کسر نہ رکھنا۔
 رُو رعایت نہ کرنا (۲) قطع تعلق کر لینا۔ بالکل بگاڑ لینا۔
 لگی ہونا۔ (۱- محاورہ) محبت ہونا۔ دُص ہونا (۲) ناجائز تعلق ہونا۔
 لگی ہوئی بات۔ (۱- صفت) منگنی۔ محبت۔
 لگے۔ (ل- گے) [۱- باع فعل] [قریب۔ پاس۔ نزدیک۔ ساتھ۔ ہمراہ۔
 لگے لگی پکڑتے پھینچا پکڑتے (۱- محاورہ) تھوڑا سا سہارا پاکر اور آگے
 بڑھنے کی کوشش کرنا۔ معمولی سہارا پاکر سر پر چڑھنا۔
 لگے بندے۔ (۱- صفت) علاقہ دار و متعلقین۔ لگے بندے۔ (ق)
 لگے جانا۔ (۱- محاورہ) (۱۱) ساتھ ساتھ جانا۔ پیچھے پیچھے چلا جانا (۲) چین نہ
 لینے دینا۔ پیچھے پڑے رہنا۔
 لگے دم مٹے غم۔ (۱- مغولہ) تشہ پینے سے غم دُور ہوتا ہے۔ (نشہ بازوں
 کا مغولہ)۔
 لگے رہنا۔ (۱- محاورہ) ساتھ ساتھ رہنا۔ ہمراہ رہنا۔ پیچھے رہنا۔
 لگے لگے۔ (۱- باع فعل) (۱۱) پاس پاس۔ قریب قریب۔ پہلو پہلو۔
 ساتھ ساتھ۔ (۲) ایک لگے جس سے بندوں کو ہنساتے ہیں۔
 لگے ہاتھ۔ لگے ہاتھوں۔ (۱- باع فعل) (۱۱) ساتھ کے ساتھ۔ اسی وقت۔
 (۲) اسی سلیطے میں۔
 لگ پگ۔ (ق) [ق] فوراً۔ جمل ہی۔

(۹) کھڑا ہونا۔ نصب ہونا (۱۰) چوٹ آنا۔ ضرب پہنچنا۔ (دہ) کر
 کھانا۔ (۹) محسوس ہونا۔ مِس ہونا۔ (۱۰) مقابل ہونا۔ برابر ہونا۔
 (۱۱) شروع ہونا۔ آغاز ہونا (۱۲) باہم آشنائی کرنا (۱۳) مؤثر ہونا۔
 کارگر ہونا (۱۴) جُنتا۔ سلگنا۔ منتقل ہونا (۱۵) ہضم ہونا۔ اٹک لگنا۔
 (۱۶) ہم بستہ ہونا۔ جماع کرنا (۱۷) سر ہونا۔ پیچھے پڑنا (۱۸) سچا یا جانا۔
 ترتیب سے رکھا جانا (۱۹) مشغول ہونا۔ مصروف ہونا (۲۰) ذمہ
 پڑنا۔ سر پڑنا (۲۱) گھسنا۔ پھینچنا۔ (۲۲) تیز ہونا۔ دھار پر رکھا جانا۔
 (۲۳) کٹارے پر پہنچنا (۲۴) خرچ ہونا۔ صرف ہونا (۲۵) بازی پر لگانا۔
 داؤں پر رکھنا (۲۶) استعمال میں آنا۔ بڑا جانا (۲۷) جُڑا جانا۔ مرتفع
 کیا جانا (۲۸) جُنا (۲۹) پان پتہ (۳۰) قیمت قرار پانا (۳۱) الزام لگانا۔
 (۳۲) جوئے کا کاشنا۔ (۳۳) تاک میں ہونا۔
لگنت۔ (لگت۔ نشت) [ھ۔ ا۔ منٹ] [جماعت۔ جماع۔
 لگنت بدیا۔ دہ علم جس میں جماع کے طریق اور ڈھنگ بتلاتے گئے
 ہوں۔ لوگ شاستر۔
لگنی۔ (لگت۔ نی) [ھ۔ ا۔ منٹ] [چوٹا لگن۔
 لگو۔ بندھو۔ لگت۔ گو۔ لگت۔ گو۔ بن۔ دُھو] [ھ۔ صفت] [یار۔
 آشنا۔ دوست۔
 لگوا۔ لگواڑ۔ (لگت۔ وا۔ لگ۔ واڑ) [ھ۔ ا۔ مذ و صفت] [یار آشنا۔
 (۲) مطلبی۔ خود غرض۔ مطلب کا یار۔
لگوانا۔ (لگت۔ وا۔ نا) [ھ۔ مع] [لگانا کا متعدی متعدی۔ (۲) ترکا مادہ پر
 چھوڑنا۔ جماع کرنا۔
 لگوا۔ (ھ۔ صفت) حملہ کرنے والا۔ چوٹ کرنے والا۔ (۲) یار۔ آشنا۔
لگت ہارن۔ (Leghorn) [لگت۔ صفت] [ولایتی مرغیوں کی
 ایک نسل۔
 لگی۔ (لگت۔ گی) [ھ۔ ا۔ منٹ] [۱۱] مہلی پکڑنے کی پکھڑا چھڑی (۲) بانس
 کی لمبی چھڑی۔ (۲) لمبی دھجی۔ لیر۔ ناؤ ٹھہرنے کا لمبا بانس۔
 لگی۔ (ل- گی) [ھ۔ ا۔ منٹ] (۱) خواہش۔ آرزو و عشق۔ لگن (۲) جھوک۔
 آنتا۔
 لگی بچھنا۔ [۱- محاورہ] خواہش پوری ہونا (۲) روٹی پیٹ میں پڑنا۔
 جھوک رنچ ہونا (۳) غصہ دھیمان ہونا۔
 لگی بُری ہوتی ہے۔ (۱- مثل) عشق بُری بلا ہے۔ محبت میں بُرا
 بھلا کچھ نہیں سونھتا
 لگی تو روزی نہیں تو روزہ۔ (۱- مثل) انتہا کی عزت ہی کے متعلق کہا
 جاتا ہے۔
 لگی کو بچھانا۔ (۱) محاورہ (۱۱) عشق کی آگ کو دبانا (۲) آرزو پوری کرنا۔
 (۳) پیٹ میں ڈالنا۔ جھوک مٹانا۔ (۴) غصہ فرو کرنا (دہ) فتنہ و
 فساد کو مٹانا۔
 لگی لگنا۔ (۱- محاورہ) طرفداری کی بات کہنا۔ موافق کہنا۔ خوشامد کرنا۔
 لگی لپیٹی۔ (۱- منٹ) کسی کے موافق۔ طرفداری کی۔

ل-ل

للا۔ (لن- لا) [ھ۔ ا۔ مذ] (۱) بچہ۔ طفل۔ بالک۔ لاکا (۲) بیٹا۔ پُوت۔
 (۳) کرشن جی کا لقب (۴) [صفت] [پیارا۔ لاڈلا۔ (۵) نادان۔ کم کرنا۔
 نوعمر (۶) احمق۔ بیوقوف۔ گاؤ دی۔
للاٹ۔ (ل- لاٹ) [س- ا۔ مذ] (۱) ماتھا۔ پیشانی (۲) جھاگ نصیب۔
 قسمت۔
لکت۔ (ل- لکت) [س- صفت] (۱) مرغوب۔ پسند خاطر (۲) خوبصورت۔
 حسین۔ (۳) شوخ۔ چھیخ۔ چھیل۔ چھلی (۴) دلولہ عشق۔ ہڈ بڑ محبت
 (۵) ایک راگنی۔
للیچانا۔ (لن- چا- نا) [ھ- مع] (۱) لالچ کرنا۔ لالچ کرنا۔ حرص کرنا (۲)
 آرزو کرنا۔ تمنا کرنا۔ (۳) مائل کرنا (۴) طع دینا۔ للیچانا۔
للیچا ہٹ۔ (لن- چا- ہٹ) [ھ- ا۔ منٹ] (۱) لالچ۔ طع۔ حرص
 (۲) خواہش۔ آرزو۔
لکت۔ (ل- لکت) [ھ- ا۔ منٹ] (۱) اُننگ۔ شوق (۲) جوش۔

ل - ن

لمبریں کے رجسٹر میں درج شدہ بد معاش۔
لمبری دعویٰ۔ لمبری مالش۔ (۱- مذ۔ مٹ) مالش عام۔ دعویٰ عام۔
لمبرٹ۔ (لم۔ برٹ) [ھ۔ ۱- مذ] ۱) معمولی سے زیادہ لمبا (۲) لمبا اور احمق آدمی۔

لمبو۔ (لم۔ بو) [ھ۔ صفت] لمبا۔ دراز قد۔ لانا بطویل القامت۔
لمبو تڑا۔ (لم۔ بو ت) [را۔ ھ۔ صفت] چھڑا کم اور لمبا زیادہ بیضوی۔ کتالی۔
لمبی۔ (لم۔ بی) [ھ۔ صفت] لمبا کی مائینٹ۔ دراز۔ بطویل۔ بڑی پٹی بلند۔

لمبی تان کر سونا۔ (۱- محاورہ) اطمینان سے سونا، غفلت کی نیند سونا۔
لمبی تاننا۔ (۱- محاورہ) ۱) بے کفوری سے سوجانا۔ (۲) ڈور کا سفر کرنا۔
لمبت تک اپنے ملک سے فوراً رہنا (۳) مرجانا۔ سفر آخرت اختیار کرنا۔

لمبی چوڑی ہانکنا۔ (۱- محاورہ) ۱) شیخی بگھارنا۔ ٹینگ مارنا۔ (۲) لمبی داستان سنانا۔

لمبی داستان۔ (۱- مٹ) طول طویل کہانی۔
لمبی سانس بھرننا۔ (لمبنا)۔ (۱- محاورہ) دیر تک سانس لینا۔ آہ سرد کھینچنا۔ افسوس کرنا۔ پھینکانا۔ نزع کا وقت ہونا۔

لمپ۔ (Lamp) [انگ۔ ۱- مذ] مغربی طرز کا چراغ جس پر تیل کی جہتی لگی ہو۔

لمچہ۔ (لم۔ حہ) [ع۔ ۱- مذ] ۱) کوند۔ بجلی کی چمک (۲) چمک مارنے کا قوفہ چشم زدن (۳) شایر۔ پل۔ دقیقہ۔ کند۔ جمع، لمحات۔

لمچہ بھڑ۔ (۱- مٹ) فعل، ذرا سی دیر۔ پل بھڑ۔ ایک نظر۔
لمس۔ (ع۔ ۱- مذ) ۱) مس کسی چیز کو ہاتھ لگانا۔ (۲) کسی چیز کو چھو کر معلوم کرنے کی قوت۔ قوت لامس۔

لمعان۔ (ع۔ صفت) چمکیلا۔ چمکنے والا۔
لمعہ۔ (لم۔ عہ) [ع۔ ۱- مذ] ۱) چمک۔ روشنی۔ نور (۲) شعاع۔ کرن۔ جمع، لمعات۔

لمکنا۔ (ل۔ مک۔ نا) [ھ۔ ۱- مٹ] ۱) لپکنا۔ جھپٹنا۔ دوڑنا۔ پک کر جانا۔ لیے لیے ڈگ بھڑنا۔

لمن الملک۔ (ع۔ کلمہ استفہامیہ) ۱) کس کا ملک ہے۔ قرآن شریف میں ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ بتاؤ کج کس کی حکومت اور سلطنت ہے (۲) بے جا ناز و تجر۔

لمیٹڈ۔ (Limited) [ل۔ می۔ ٹڈ] [انگ۔ صفت] شرکت محدود۔ وہ کمپنی جس کے جہتہ داروں کی ذمہ داری محدود ہوتی ہے۔

لن۔ (لن) [ع۔ حرف نفی] نہ۔ مت۔
لن ترانی۔ (ع۔ ۱- مٹ) [تو مجھے ہرگز نہ دیکھ سکے گا] خود ستانی۔
لنن۔ انانیت۔ شیخی۔ ٹینگ۔

لن ترانی کرنا۔ کی لینا۔ (۱- محاورہ) شیخی مارنا۔ ٹینگ مارنا۔ دن کی لینا۔

لن ترانیال۔ (ع۔ ۱- صفت) شیخیوں۔ ٹینگوں۔ نقلیاں۔
لنا۔ [ق۔ یص] [کاٹنا (فصل کاٹنا)]
لنبا۔ (لم۔ با) [ھ۔ صفت] لمبا۔

لنبا۔ (لم۔ بان) لمبان۔ لمبائی۔ درازی۔ طوالت۔
لنبا۔ (لم۔ با۔ ای) [۱- مٹ] لمبائی۔

لنٹل۔ (Lintel) [لن۔ ٹل] [انگ۔ ۱- مذ] بے ڈاٹ کی چھت جس میں سر یا اور سینٹ سے کام لیتے ہیں۔

لنٹرن۔ (انگ۔ ۱- مٹ) دیکھنے لائٹیں۔
لنچ۔ (ن۔ صفت) ہاتھ پاؤں سے معذور۔ لنگڑا۔ ٹولا۔
لنچ۔ (ن۔ صفت) لنگڑا۔ لنگھا۔

لنچا۔ (لن۔ جا) [ا۔ صفت] لنچ۔ لنگڑا۔ ہاتھ پاؤں سے معذور۔
لنچاڑا۔ لنگھڑا۔ (لن۔ حجا۔ ٹرا۔ لن۔ حجے۔ ٹرا) [ھ۔ ۱- مذ] دنیا کے کھیرے۔ دنیاوی تعلقات۔

لنچ۔ (Lunch) [انگ۔ ۱- مذ] دوپہر کا کھانا۔ حاضری۔ چاشت۔ کھانا۔

لندے پھندے۔ [ھ۔ ۱- مذ] دیکھنے لہے پھندے۔
لنڈ۔ [س۔ ۱- مذ] آواز تناسل۔ ڈکر۔ بنگ۔

لنڈ۔ (ہ۔ صفت) ۱) سرکشا ہوا۔ دھڑ۔ بے سرکشا ٹپتا ہوا جسم (۲) کٹا ہوا (۳) بن پتوں اور بن شاخوں کا درخت۔ سوکھا ٹھنڈا۔
لنڈ منڈ۔ (۱- صفت) ۱) وہ شخص جس کا سر ڈھاڑھی اور ٹونجیں منڈی ہوئی ہوں۔ صفا چٹ۔ (۲) بن پتوں اور بن شاخوں کے درخت۔ (۳) منسل۔ تنگ دست۔ بے سر سامان۔

لنڈ۔ (لن۔ ڈا) [۱- صفت] ۱) دم پریدہ۔ لنڈولا۔ دم کٹا۔ (۲) وہ درخت جس میں شاخیں اور پتے نہ ہوں (۳) بے کس۔ بے یار مددگار۔ وہ شخص جس کا کوئی ساتھی نہ ہو۔

لنڈ کرمی۔ (لنڈ۔ ک۔ رمی) [ھ۔ ۱- مٹ] [لٹھکنی۔ تلابازی۔
لنڈ کرمی (لنڈ کرمیاں) کھانا۔ (۱- محاورہ) گر کر تلابازی کھانا۔
گڑ کر لوٹ پوٹ ہو جانا۔

لنڈولا۔ (لن۔ ڈو۔ وا) [ھ۔ صفت] ۱) دم پریدہ۔ لنڈا۔ دم کٹا۔
۲) بے یار و مددگار۔ بے کس۔

لنڈوری - (نن - ڈو - ری) [۷ - صفحہ ۱۵] لنڈورا کی تائینٹ۔
بے بس۔

لنڈوری فاختہ - (۱ - مش) وہ عورت جس کا کوئی سہارا نہ ہو۔ جسے
لنڈھانا - (نن - ٹھا - نا) [۷ - صفحہ ۱۵] اونڈھانا - بہانا۔ کسی ترقی چیز
کو برتن سے زمین پر گرانا۔

لنڈھنا - (نن - ڈھ - نا) [۷ - صفحہ ۱۵] ہنا (۲) لڑھکنا۔ غلطیہ ہونا۔
لنڈھی - (نن - ڈھی) [۷ - صفحہ ۱۵] مش [حشرات کا کلمہ عورت کے واسطے۔
لنڈھی - [ق] لنڈوری - لنڈا کی تائینٹ۔

لنز - (Lens) [انگ - ۱ - مذ] (۱) عینک کا شیشہ۔ عدسہ - (۲)
آنکھ کا پردہ (۳) ڈوربین یا خوردبین کا شیشہ۔
لنک - (۱ - ۱ - مذ] ۱۵ [طویر انبار - تودہ (۲) [مش] باگ - عنان -

(۳) میان - کمر۔
لنک گنا - (۱ - محاورہ) انبار گنا۔ طویر گنا۔

لنک میں جو چھوٹا سوا پون ہی گڑ کا - (۱) مثل چھوٹے سے
بڑے تک سب بڑی عادتوں میں مبتلا ہیں۔

لنگ - (۱ - صفحہ ۱۵) لنگڑا۔ ٹولا۔ اپانج [مذکر] لنگڑا پن۔ پاؤں کا
نقص۔

لنگ کرنا - (۱) محاورہ لنگڑانا۔ کسی نقص کے باعث پورا پاؤں
زمین پر نہ لگانا۔

لنگ - (۱ - ۱ - مذ] ۱۱ [قطار - صفحہ ۱۵] سلسلہ (۲) طرف - جانب -
سمت - سرا - کنارہ - (۳) دیوار - قنات اوٹ - پردہ (۴)
دھوتی کا لڑیا پلا۔

لنگ - [۱ - ۱ - صفحہ ۱۵] عضو تناسل۔

لنگ - (۱ - ۱ - مذ] ۱۱ [گھٹنوں تک نہ بند - لنگٹی - (۲) آگے تناسل۔
لنگارا - (نن - گارا - لن - گا - ٹا - ۱) [۱ - صفحہ ۱۵] بے حیا۔
بے شرم - ڈھیلٹ - (۲) لچا - لنگڑا - شہرا - (۳) شرمیہ - بدتماشیا
(۴) فسادیا۔

لنگاراپن - (نن - گاراپن - ۱ - ۱ - مذ] ۱۱ [بے شرمی - بے حیائی - ٹھٹائی -
(۲) چپن - چنڈا پن (۳) شرارت - بدتماشی۔

لنگر - (نن - گن - ۱ - ۱ - مذ] ۱۱ [جہاز یا قافلہ کا ٹھہراؤ - کوسے کی زنجیر
یا رستہ جو کشتی ٹھہرانے کے لیے کسی جہاز کی جہاز کے ساتھ کنارے
پر باندھ رکھتے ہیں۔ (۲) خیرات خانہ - وہ جگہ جہاں روزانہ فقیروں
کو کھانا تقسیم ہو۔ (۳) وہ کھانا جو مسکین و فقرا کو دیا جاتا ہے۔ (۴)
بڑے آدیوں کا باورچی خانہ۔ (۵) عیسوی گھڑا کرنے کا موٹار سا۔
(۶) پہلو انوں کا لنگوٹ۔ (۷) دھڑکے نیچے کا حصہ - کولہے - چتر ٹرٹ
(۸) بوجھ - بار - وزن (۹) گھنٹے کا ٹکڑا - پنڈولم۔

لنگراٹھا - (۱ - محاورہ) کشتی یا جہاز کا رستہ کھول کر اگے کو چلانا۔
جہاز روانہ کرنا۔

لنگر باندھنا - (۱ - محاورہ) (۱) پہلو انوں کا لنگوٹ باندھنا۔ (۲) گنا تیا
جہاز سے بچنے والا۔

جماعت سے پرہیز کرنا۔

لنگر ٹینا - (۱ - محاورہ) عزت با رہیں۔ روزانہ مفت کھانا تقسیم ہونا۔
لنگر توڑنا۔ (۱ - محاورہ) پہلو ان کا اپنے حریت کو زمین پر سے اٹھا
لینا۔ شکست دینا۔

لنگر جاری کرنا - (۱ - محاورہ) خیرات تقسیم کرنا۔ سدا برت جاری
کرنا۔

لنگر خانہ - (۱) منہ مسکین و فقرا کے لیے روزمرہ کھانا تقسیم ہونے
کی جگہ۔ خیرات خانہ۔ باورچی خانہ۔ رسوئی۔

لنگر ڈالنا - (۱ - محاورہ) (۱) جہاز یا کشتی کو ٹھہرانا۔ (۲) ٹھہرنا۔ تیار کرنا۔
(۳) بوجھ ڈالنا۔

لنگر کا بوجھ - (۱ - مذ) بہت وزنی۔
لنگر کا لنگڑا - (۱ - مذ) خیرات کا کھانا۔ بھیک۔

لنگر کرنا - (۱ - محاورہ) جہاز یا کشتی کا ٹھہرانا۔
لنگر گاہ - (۱ - مذ) بندر گاہ۔ جہازوں کے ٹھہرنے کی جگہ۔
لنگر لنگوٹ - (۱ - مذ) پہلو انوں کا لنگوٹ۔

لنگر لنگوٹا باندھنا - (۱) کسٹم کشنی کرنے کو تیار ہونا۔
لنگر لنگوٹا دینا - لنگر لنگوٹا آگے رکھنا۔ (۱ - محاورہ) کسی پہلو ان کی
شاگردی اختیار کرنا۔

لنگر - (نن - گز - ۱ - ۱ - ۱) [۷ - صفحہ ۱۵] بے حیا۔ بے عزت (۲) لچا۔ لنگڑا۔
بچپن۔

لنگری - (نن - رنی) [۱ - ۱ - صفحہ ۱۵] لنگر سے مسوب (۲) جیسے لنگر
کا کھانا۔ (۳) [مذ] ایک قسم کا بڑا ششت [۱ - ۱ - ۱] [۱ - ۱] وہ شخص جو
محتاج خانہ میں مسکین و غرا کو کھانا تقسیم کرے۔ [مش] پان
رکھنے کی چھوٹی گھری تھالی۔ لگنی۔ (۵) وہ آتھلی تھالی جس میں
لنگر کا کھانا تقسیم کرتے ہیں۔

لنگر ٹا - (نن - گڑ - ۱ - ۱ - ۱) [۱ - ۱ - ۱] [۱ - ۱ - ۱] جب بچے ڈور ہیں
باندھ کر آپس میں لڑاتے ہیں۔ اس کھیل کو لنگر پوچھتے ہیں۔

لنگر ٹا - (نن - گڑ - ۱ - ۱ - ۱) [۱ - ۱ - ۱] [۱ - ۱ - ۱] ایک ٹانگ سے سمندر۔
اپانج پانگتہ (۲) [کنایش] بودا - کمزور (۳) ایک مشہور آدم۔

لنگر ٹانا - (نن - گڑ - ۱ - ۱ - ۱) [۱ - ۱ - ۱] [۱ - ۱ - ۱] [۱ - ۱ - ۱]
پورا پاؤں ٹیک کر نہ چلنا۔

لنگر ٹی - (نن - گڑ - ۱ - ۱ - ۱) [۱ - ۱ - ۱] [۱ - ۱ - ۱] [۱ - ۱ - ۱]
جس کے پاؤں میں نقص ہو۔

لنگڑی کا درد - (۱ - مذ) دیکھنے عرق انسا۔

لنگڑی گنا آسمان پر گھونٹلا - (۱) مثل اپنی لیاقت سے بڑھ کر کام کرنا۔
لنگوٹ - (نن - گوٹ) [۱ - ۱ - ۱] [۱ - ۱ - ۱] [۱ - ۱ - ۱]
باندھتے ہیں۔

لنگوٹ بند - (۱ - ۱ - صفحہ ۱۵) لنگوٹ باندھے رہنے والا۔ (۲) مجرور۔
عورت سے بچنے والا۔

گنیا۔ (رُن۔ یا) [ھ۔ ۱۔ مذکر] ایک قوم جس کا پیشہ کنوئیل کھودنا اور دیوار بنانا ہے۔

ل۔ و۔

لو۔ [ھ۔ ۱۔ مثنیٰ] (۱) شعلہ۔ لپٹ۔ جھبکا۔ لاٹ (۲) دھیان۔ توجہ۔ نیچال۔ یکسوئی۔ (۳) آس۔ امید۔ توقع (۴) شوق۔ محبت (۵) کان کی جڑ، کان کے نیچے کے سُرخی نوک۔ پگیا۔

لو اٹھنا۔ (۱) محاورہ) شعلے کا بلند ہونا۔ لاٹ نکلنا۔
لو بچھنا۔ (۱) محاورہ) شعلہ فرو ہونا۔ (۲) خواہش بٹھنا۔
لو بھڑکنا۔ (۱) محاورہ) چلچل میں تیل شمع ہونے پر شعلہ کا بھڑک اٹھنا۔
لو دینا۔ (۱) محاورہ) شعلہ نکلنا۔ بے حد چمک دکھانا۔
لو لگانا۔ (۱) محاورہ) تصدق باندھنا۔ نیچال باندھنا۔ توجہ دینا۔ رجوع ہونا۔ ہر وقت دھیان لگانا۔ (۲) عشق کرنا۔ دل لگانا۔ عاشق بڑا (۳) خواہش کرنا۔ آرزو مند ہونا۔

لو لگنا۔ (۱) محاورہ) نصویر بندھنا۔ نیچال بندھنا۔ توجہ دینا۔ رجوع ہونا۔ (۲) عبادت یا ذکر خدا میں مصروف ہونا۔ (۳) خواہش ہونا۔ اشتیاق ہونا۔ (۴) امید بندھنا۔ آس بندھنا۔ دھتے پیش لگنا۔ لپٹ لگنا (۵) بار بار نام لینا۔ دینے تک ذکر کیے جانا۔

لو۔ [ع۔ حرف شرط] اگر۔
لو فرضنا۔ [ع۔ تالیف فعل] اگر ہم نے فرض کیا۔ بالفرض۔ فرض کرو۔
لو لاک۔ حدیث قدسی لو لاک لکنا خلقت الالفاک کی طرف اشارہ ہے۔ یعنی اگر تیری (رسول اکرم کی) ذات نہ ہوتی تو میں آسمانوں کو پیدا نہ کرتا۔

لو۔ (۲) واؤ مجموعی سے (۱) تالیف فعل (۲) یکلو۔ سنبھالو (۳) کسی شخص کو اپنی طرف مخاطب کرنے کا کلمہ۔ سنو۔ دیکھو۔ نیچال کرو (۴) کلام کو خوبصورت بنانے کا کلمہ۔ تجبین کلام کا کلمہ۔
لو اور تماشا دیکھو۔ (مقولہ) حیرت انگیز بات ظاہر کرنے پر کہتے ہیں۔
لو اور سنو۔ (۱) روزمرہ) حیرت انگیز بات ظاہر کرنے پر کہتے ہیں۔
لوچی (صاحب) (۱) روزمرہ) تعجب اور حیرت کے مقام پر کہتے ہیں۔

لو۔ (۲) مثنیٰ) وہ گرم ہوا جو موسم گرما میں چلتی ہے۔ سونم۔
لو لگنا۔ (۱) محاورہ) گرم ہوا کا اثر ہونا۔ گرم ہوا لگنے سے بیمار ہو جانا۔
لو۔ (ل۔ و۔ ۱) [ھ۔ ۱۔ مذکر] بھیر کی قسم کا ایک چھوٹا سا پرندہ جو اکثر جھاڑوں میں رہتا ہے۔

لو۔ (ل۔ و۔ ۱) [ھ۔ ۱۔ مذکر] علم جھنڈا۔ فوج کا نشان۔
لو اوحی۔ (ل۔ و۔ ۱) [ھ۔ ۱۔ مذکر] لاحق حق کی جمع۔ (۲) متعلقین۔
رشتہ دار۔ بھائی بند۔ (۳) لوکر۔ چاکر

لنگوٹ پاٹنا۔ (۱) محاورہ) کشتی لڑانا ترک کر دینا۔
لنگوٹ وار۔ (۱) صفت) وہ پتنگ یا لنگوٹ جس کے نیچے کی طرف نیچیں

ششٹیاں لانا کا مذکر لگا ہوا ہوں۔
لنگوٹ کا سچا۔ (۱) صفت) وہ شخص جو غیر عورت سے پرہیز کرے۔
زنا سے بچنے والا۔ پارسا۔ پرہیزگار۔

لنگوٹ کھولنا۔ (۱) محاورہ) (۲) محاورہ) (۳) محاورہ) کرنا (۴) زنا کرنا۔
لنگوٹا۔ (رُن۔ گو۔ ٹا) [اُر۔ ۱۔ مثنیٰ] دیکھیے لنگوٹ۔
لنگوٹی۔ (رُن۔ گو۔ ٹی) [اُر۔ ۱۔ مثنیٰ] (۱) لنگوٹا کی تانیت۔ (۲) چھوٹی دھوتی۔ کپڑے کا وہ چھوٹا سا ٹکڑا جس کا ایک ہر اسٹریچ میں سے

نکال کر کہیں باندھ لیتے ہیں۔
لنگوٹی باندھ پھرنے۔ (۱) محاورہ) (۲) نہایت غریبی کے باعث تنگا پھرنے (۳) بچھڑنا۔ کم بن۔
لنگوٹی بندھو دینا۔ (۱) محاورہ) (۲) لگنا (۳) بالکل منغل۔ تلاش بنا دینا۔

سب کچھ ٹوٹ لینا۔
لنگوٹی کھٹنا۔ (۱) محاورہ) (۲) کنا بیٹہ پر دے کی دیوار گر جانا۔ پردہ فاش ہو جانا۔

لنگوٹی میں پھاگ کھیلنا۔ (۱) محاورہ) (۲) کنا بیٹہ تنگدستی میں سزا اڑانا۔ منغلی میں عیش و عشرت کرنا۔
لنگوٹی میں مست۔ (۱) صفت) غریبی میں خوش بنے نکلا۔

لنگوٹے کا ڈھیلا۔ (۱) صفت) عیاش۔ زانی۔
لنگوٹے کا سچا۔ (۱) صفت) پاکباز۔ دیکھیے لنگوٹ کا سچا۔
لنگوٹیا۔ (رُن۔ گوٹ۔ یا) [اُر۔ ۱۔ صفت] (۲) مذکر] (۳) لنگوٹ بند (۴) ساتھ کا کھیل۔ بچپن کا یار۔ پرانا اور گرا دست۔

لنگوچا۔ (رُن۔ گو۔ چا) [ھ۔ ۱۔ مذکر] بھیر بکری وغیرہ کی آنت جس میں قیہ بھر کر سنتے ہیں۔
لنگوڑ۔ (رُن۔ گوڑ) [ھ۔ ۱۔ مذکر] ایک قسم کا بندر جس کا منہ کالا اور دم لمبی ہوتی ہے۔

لنگوری۔ (رُن۔ گو۔ ری) [ھ۔ ۱۔ مثنیٰ] (۲) چوری کا مال برآمد کرنے میں امداد (۳) چور پکڑانے کا انعام (۴) گھوڑے کی ایک سال۔

لنگھانا۔ (رُن۔ گھ۔ نا) [ھ۔ ۱۔ مثنیٰ] پار اُتارنا۔ ندی یا دریا سے پار کرنا۔
لنگھن۔ (رُن۔ گھ۔ ن) [س۔ ۱۔ مذکر] (۲) کو دیکھنا۔ چھلانگ (۳) پار اُتارنا۔ جبکہ کرنا (۴) روزہ۔ فاقہ۔

لنگھنا۔ (رُن۔ گھ۔ نا) [ھ۔ ۱۔ مثنیٰ] پار ہونا۔ عبور کرنا۔ اگلا کھنا۔ چھلانگ جانا۔

لنگلی۔ (رُن۔ گی) [ھ۔ ۱۔ مثنیٰ] پیشاب۔ بول۔ موت۔
لنگلی۔ (رُن۔ گی) [اُر۔ ۱۔ مثنیٰ] (۲) تہ بند۔ دھوتی (۳) سر سے باندھنے کی زمین دھاری دار کپڑی۔
لنگولیم۔ (Lniolum) (ل۔ تو۔ لی۔ ایم) [انگ۔ ۱۔ مذکر] ایک قسم کی دری جس پر بوتل روغن پھرا ہوتا ہے۔

لواحقین - (ع۔ ۱۔ مذ) لواحق کی جمع الجمع - (ثقہ لوگ نہیں ہوتے)
 لوازا - (دل۔ وا۔ را) مذ [ا۔ مذ] گوسالہ بچھرا۔ گائے کا بچہ۔
 لوازم - (دل۔ وا۔ زم) [ع۔ ۱۔ مذ] لازم کی جمع - ضروری چیزیں۔ اسباب۔
 لوازمات - (دل۔ وا۔ ز۔ مات) [ع۔ ۱۔ مذ] لوازم کی جمع - سامان۔
 لوازمہ - (دل۔ وا۔ ز۔ مہ) [ع۔ ۱۔ مذ] لازم کی جمع - ضروری چیزیں۔ سامان۔
 لواطقت - (دل۔ وا۔ طقت) [ع۔ ۱۔ مذ] لوازم کے ساتھ بذمعی کرنا۔
 لواالانا - (۱۔ محاورہ) جاکر اپنے ساتھ لانا۔
 لواالے جانا - (۱۔ محاورہ) ساتھ لے جانا۔ اٹھولے جانا۔
لواضع - (ع۔ ۱۔ مذ) دیکھنے لایع جس کی یہ جمع ہے۔
لواضمہ - (ع۔ اسم مبالغہ) سخت طاقت کرنے والا (۲۔ مذ) نفس کی ایک قسم، جو انسان کو برے کام کرنے پر طاقت کرتی ہے۔
لوانا - (دل۔ وا۔ نا) [ھ۔ مصل] لینا کا متعدی المتعدی - (۱۔ خرید کر وانا بیل لے لینا۔ ۲۔ اٹھوانا۔ ۳۔ بلوانا۔
لواضح - (دل۔ وا۔ اج) [ع۔ ۱۔ مذ] دیکھنے لائق جس کی یہ جمع ہے۔ دستور (۲۔ روشنیاں۔
لویان - (لو۔ بان) [ع۔ ۱۔ مذ] ایک قسم کا گوند جو آگ پر رکھنے سے خوشبو دیتا ہے۔
لویجھ - (۱۔ مذ) [ع۔ ۱۔ مذ] لایج - طبع (۲۔ تھنا۔ آرزو۔ ۳۔ بکوسی۔
لویجھ کرنا - (۱۔ مصل - مرکب) لایج کرنا۔ طبع کرنا۔ حرص کرنا۔
لویجھی - (لو۔ بھی) [ھ۔ مصل] [ع۔ ۱۔ مذ] لایجی - طابع (۲۔ خواہش مند۔ آرزو مند (۳۔ بکوسی بچیل بٹنک۔
لویسا - (لو۔ پ۔ یا) [ھ۔ ۱۔ مذ] ماش کی قسم کا پودا جس کی کچی پھلیوں اور دانوں کو بچا کر کھاتے ہیں۔
لوپ - (ھ۔ صفت) [ع۔ ۱۔ مذ] مخفی۔ پوشیدہ - چھپا ہوا (۲۔ نیست و نابود۔ معدوم۔
لوپنا - (لوپ۔ نا) [ق۔ مصل] [ھ۔ ۱۔ مذ] بھلانا۔
لوپتھیر - (ھ۔ ۱۔ مصل) [ع۔ ۱۔ مذ] لاش۔ مردہ جسم۔
لوپتھ پڑنا - (۱۔ محاورہ) مردہ ہو کر گرنا۔
لوپتھ لوپتھ - (ھ۔ صفت) تھک کر چور۔ مردہ جسم کی طرح۔
لوپتھ ٹالنا - (۱۔ محاورہ) مار کر مار دینا۔ لاش ڈال دینا۔
لوپتھڑا - (لوپتھ۔ ٹرا) [ھ۔ ۱۔ مذ] گوشت کا بڑا ٹکڑا، جس میں ہڈی نہ ہو۔
لوپتھڑا - پارچہ۔ منجھتھون کا ٹکڑا۔
لوٹ - (ھ۔ ۱۔ وا۔ و۔ جھول۔ مصل) [ع۔ ۱۔ مذ] لوٹنی۔ لڑھکنی۔ غلطی (۲۔ کھڑک۔
لوٹلوٹ (۳۔ صفت) عاشق۔ مفتول۔ فریفتہ۔
لوٹ پوٹ - (۱۔ صفت) [ع۔ ۱۔ مذ] لوٹنا کھٹنا ہونا۔ لڑھکن پھوٹنا (۲۔ عاشق۔ فریفتہ۔ مفتول۔ مضطرب۔ بے قرار (۳۔ اوپر تلے۔ اُلٹ پلٹ۔
لوٹ پوٹ ہو جانا (ہونا) - (۱۔ غلطان و پسیان۔ تروپ جانا۔ پھیرک جانا۔ ۲۔ فریفتہ ہونا۔ ۳۔ تروپ کر جانا۔ دفعہ مر جانا۔
لوٹ جانا - لوٹ ہو جانا۔ لوٹ ہونا۔ (۱۔ محاورہ) [ع۔ ۱۔ مذ] لڑھکنیاں کھانے لگنا۔ زمین پر لوٹنے لگنا۔ (۲۔ غش آجانا (۳۔ مرجانا (۴۔ عاشق

ہو جانا - (ھ۔ ۱۔ مذ) بے قرار ہو جانا۔ تروپ جانا۔ (۲۔ مکر جانا۔ انکار کر جانا۔
پھیر جانا - برگشتہ ہو جانا۔ (۳۔ از حد خوش ہونا۔ بہت پسند کرنا۔
لپھانا - لپھینا۔ (۴۔ قربان ہونا۔ تصدق ہونا۔ صدقے ہونا۔
لوٹ لگانا - (۱۔ محاورہ) لڑھکننا۔ لکنا [کسی پر عاشق ہونا (۲۔ چلنا۔ منکرنا۔
لوٹ ہو جانا - (۱۔ محاورہ) کسی چیز کے حُسن و خوبی کو دیکھ کر وجد میں آ جانا۔ (۲۔ عاشق ہونا۔ ۳۔ کمال اختیار ہونا۔
لوٹ - (ھ۔ ۱۔ مصل) [ع۔ ۱۔ مذ] دوسرے کے مال پر ناجائز قبضہ۔ زبردستی قبضہ۔ غارت گری۔ تاراج۔ پھینکا۔ چھوٹی (۲۔ ظلم۔ اندھیر (۳۔
لوٹ - (ھ۔ ۱۔ مصل) [ع۔ ۱۔ مذ] مارا مارا پیشا اختیار کرنا۔
لوٹ پڑنا - (۱۔ محاورہ) لوٹ مار ہونا۔ غارت گری ہونا۔ ظلم ہونا۔ اندھیر ہونا۔
لوٹ ڈالنا - مچانا۔ (۱۔ محاورہ) زبردستی کرنا۔ غارت گری کرنا۔ کھلم کھلا مال مارنا۔
لوٹ کا مال - (۱۔ مذ) [ع۔ ۱۔ مذ] مال غنیمت (۲۔ چوری کا مال۔ ناجائز حاصل کیا ہوا سامان (۳۔ مفت کا مال (۴۔ نہایت سستا مال۔
لوٹ کھانا - (۱۔ مصل - مرکب) کسی کا مال زبردستی لے لینا۔
لوٹ کھسٹوٹ - مار۔ (۱۔ مصل) غارت گری۔ ڈاکہ۔ قزاقی۔ زبردستی۔
لوٹ کے ٹوسل بھی پھیلے - (۱۔ مصل) مفت میں ادنیٰ چیز بھی مل جائے تو قیمت ہے۔
لوٹ لائے لوٹ کھائے - (۱۔ مصل) مفت کا مال حاصل کیا اور مزے اڑائے۔
لوٹ لینا - (۱۔ محاورہ) [ع۔ ۱۔ مذ] مال چھین لینا (۲۔ موہ لینا۔ عاشق کر لینا۔ (۳۔ چوری کر لینا۔ مال مار لینا۔ (۴۔ تباہ و برباد کر لینا۔
لوٹ میں پڑنا - (۱۔ محاورہ) لوٹا جانا۔ (۲۔ لوٹ میں مصروف۔
لوٹ میں چرخہ بھی غنیمت ہے - (۱۔ مصل) مفت میں جو بھی مل جائے وہی اچھا ہے۔
لوٹا - (۱۔ وا۔ جھول سے) [ع۔ ۱۔ مذ] ایک قسم کا ٹوٹی والا بن بن۔ آفتابہ۔ بڑی لٹیا۔
لوٹا اٹھانا - لوٹا رکھنا۔ (۱۔ محاورہ) ادنیٰ درجہ کی لوٹی کرنا۔
لوٹے ڈالنا - ہٹا کر پاک ہونا۔ غسل کرنا۔
لوٹے میں نیک ڈالنا - (۱۔ محاورہ) عذر کرنا۔ قسمیہ عذر کرنا۔
لوٹا سبھی - لوٹن سبھی - (ھ۔ ۱۔ مصل) ایک قسم کی سفید یا گلابی رنگ کی کھا۔
لوٹا لوٹ - (لو۔ ٹا۔ ٹا۔ لوٹ) [ھ۔ ۱۔ مصل] [ع۔ ۱۔ مذ] لوٹ مار۔ قزاقی۔ زبردستی۔ غارت گری۔ (۲۔ اندھیر۔ ظلم۔
لوٹانا - (لو۔ ٹا۔ نا) [ھ۔ مصل] [ع۔ ۱۔ مذ] لوٹ کرنا۔ پھیرنا۔ (۲۔ اوپر تلے کرنا۔ نیچے کا اوپر اور اوپر کا نیچے کرنا۔
لوٹ پوٹ - (ھ۔ ۱۔ مصل) [ع۔ ۱۔ مذ] (ا)ں مطابح کی اصطلاح) دوزخی چھپائی۔ د۔

لوگر - (ع۔ ۱۔ مذ) باہام (۲) ایک شیشی وضع کی تراشی ہوئی مٹھائی۔
 لوڈاٹ - (لو۔ زات) (ع۔ ۱۔ مٹھ) لوڈ کی جمع۔ باہام کی مٹھائی۔
 لوڈیاٹ - (لو۔ زئی) (یات) (ع۔ ۱۔ مٹھ) باہام کا حلوہ۔
 لوڈینہ - (لو۔ زئی) (نہ) (فت۔ ۱۔ مذ) باہام کا حلوہ (۲) ایک قسم کی مٹھائی جس میں باہام ڈالتے ہیں۔
 لوڈس - (۱۔ مٹھ) جلن کی بو۔ سالن وغیرہ جل جانے کی بو۔
 لوڈ - (ع۔ ۱۔ مذ) ایک شور مچانے والی مٹھائی جس کے شور مچانے والے لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا۔
 لوٹی - (لو۔ طی) (ع۔ ۱۔ مذ) لوٹی پیچھے کی قوم (۲) اجمازا، افلام کرینولا۔
 لوڈر - (Loafer) (رنگ۔ ۱۔ مذ) کلنڈرا۔ آوارہ۔ وقت برباد کرنے والا۔
 لوک - (س۔ ۱۔ مذ) انسان۔ آدمی۔ بشر۔ لوگ۔ مرد (۲) عالم ارواح (۳) دنیا۔ عالم۔ جہان (۴) نیچے کا طبقہ۔ سخت اکثریتی۔
 لوک آجہار - لوک بیوپار - (۱۔ ۱۰۔ مذ) مکی رسوم۔ ملک کا دستور۔
 لوک پائل - (۱۔ ۱۰۔ مذ) راجہ۔ بادشاہ۔ جہاں پناہ۔
 لوک سبھا - (۱۔ ۱۰۔ مٹھ) قومی اسمبلی۔ ایوان زیریں۔ پارلیمنٹ۔
 لوک کہانی - (۱۔ ۱۰۔ مٹھ) وہ بن گئی عوامی افسانے جو سینہ بہ سینہ چلے آتے ہیں۔
 لوک گیت - (۱۔ ۱۰۔ مذ) عوام کے قدیم گیت۔ (رنگ) (Folksong)
 لوک ناٹھ - (س۔ ۱۰۔ مذ) راجا۔ بادشاہ (۲) ہما دیو۔ شیو۔ برہما۔ دشمن۔
 لوک ناچ - (۱۔ ۱۰۔ مذ) عوام کے قدیم ناچ جو کسی رسم یا نیوہار سے متعلق رکھتے ہیں۔ (رنگ) (Folkdance)
 لوکا - (لو۔ کا) (۱۔ ۱۰۔ مذ) لاٹ۔ لو۔ لپٹ۔ آگ کا شعلہ (۲) جلتی ہوئی کڑی۔
 لوکا لگانا - (۱۔ ۱۰۔ محاورہ) آگ لگانا۔ جلانا۔ جھلنا (۲) چھوڑنا۔ ترک کرنا (۳) چٹنی کھانا۔ ادھر کی بات ادھر لگانا۔
 لوکا لگاتے - لوکا لگے۔ (دعا کے بدلے) آگ لگے۔ غارت ہو۔ چولے میں جلنے۔
 لوکاٹ - (لو۔ کاٹ) (۱۔ ۱۰۔ مذ) ایک زرد رنگ کا پھل۔
 لوکارٹم - (لو۔ کار۔ ٹم) (ع۔ ۱۰۔ مذ) ایک قسم کا حساب، جو حساب کے پھیلانے کو بہت مختصر کرتا ہے۔
 لوکا لوک - (لوکا۔ لوک) (س۔ ۱۰۔ مذ) پہاڑوں کا وہ فرضی سلسلہ جو تمام دنیا کے ارد گرد حد کے طور پر بنیال کیا گیا ہے۔
 لوکڑا - (لوک۔ ٹرا) (۱۔ ۱۰۔ مذ) لوکا۔ طفل۔ (مخصوصاً وہ لڑکا جو مندریں کسی دیوی کی خدمت پر مانور ہو۔)
 لوکل - (Local) (لو۔ کل) (رنگ) (صف) مقامی کسی خاص مقام سے متعلق۔
 لوکل سلیٹ گورنمنٹ - (Local Self-Government)

(رنگ) (صف) مقامی حکومت خود
 اختیار کی گئی ہے۔
 لوکنا - (لوک۔ نا) (۱۔ ۱۰۔ مٹھ) (۲) بجلی چمکانا۔
 لوکھڑی - (لوکھ۔ ڈی) (۱۔ ۱۰۔ مٹھ) (۲) لومڑی۔
 لوکی - (لو۔ کی) (۱۔ ۱۰۔ مٹھ) (۲) کدو۔ لبا لگایا۔
 لوگ - (۱۔ ۱۰۔ مذ) بنی نوع انسان۔ بہت سے آدمی۔ اشخاص۔ جماعت۔
 لوگ ہاگ - عوام۔ عام لوگ۔
 لولا - (لو۔ لام) (۱۔ ۱۰۔ مٹھ) (۲) لہڑا۔ جس کے ہاتھ پیر نہ ہوں۔
 (۳) پیروں سے اباچ۔ لنگڑا۔ (۴) لہڑا اور لنگڑا۔ ہاتھ پاؤں سے معذور۔ اباچ۔ لنگڑا۔
 لو لاسی - (لو۔ لاسی) (۱۔ ۱۰۔ مٹھ) (۲) پھولوں کی پھریاں جو سالیانہ دو گھنٹے کو اس روز مارتی ہیں جب وہ پہلی دفعہ زنا نہ مکان میں جاتا ہے۔
 لو لو - (لو۔ لو) (ع۔ ۱۔ ۱۰۔ مذ) موتی۔ مرورید۔ گوہر۔ جمع۔ لالی۔
 لو لو - (لو۔ لو) (لو۔ ۱۰۔ ۱۰۔ مذ) بچوں کا آدھرتنا سلسلہ۔ چٹنو۔
 لو لو - (لو۔ لو) (لو۔ ۱۰۔ ۱۰۔ مذ) ایک فزنی ڈراؤنی چیز جس سے بچوں کو ڈراتے ہیں۔ بچا (۲) ایران کی ایک خوبصورت قوم۔
 گرجی (۳) [۱۔ ۱۰۔ مٹھ] بیوقوف۔ احمق (۴) پاگل۔ سوداگی۔
 خبطی۔ دیوانہ۔ باؤلا۔
 لو لو بنانا۔ (۱۔ ۱۰۔ محاورہ) احمق بنانا۔ پاگل بنانا۔
 لوئی - (لو۔ لی) (فت۔ ۱۔ ۱۰۔ مٹھ) کپڑی۔ رندی۔ ناچنے والی عورت۔
 لوئی فلک - لوئی گروں۔ (فت۔ ۱۰۔ مٹھ) زہرہ۔ ایک مشہور ستارہ۔
 لو لین - (لو۔ لین) (۱۔ ۱۰۔ مٹھ) مستغرق کسی نیال میں ڈوبا ہوا۔
 لو مٹھ - (لو۔ مٹھ) (ع۔ ۱۰۔ مٹھ) (۲) ملامت۔ ملامت کرنا۔
 لو مٹھ لائٹ - ملامت کرنے والے کی ملامت کرنا۔ رسوائی۔
 لو مڑی - (لو۔ مڑی) (۱۔ ۱۰۔ مٹھ) (۲) روباہ۔ بلی کے قدر کے برابر ایک جنگلی مہا نر۔ (۳) کٹنا۔ عیار۔ مکار۔ فزنی۔
 لو مڑی کے شکار کو جانیے تو شکار سامان کر لیجیے۔ (۱۔ ۱۰۔ مٹھ) سمولی سے کام کے لیے بھی کافی انتظام چاہیے۔
 لون - (لو۔ ۱۰۔ ۱۰۔ مذ) (۲) رنگ (۳) چہرے کی رنگت (زردی، سرخی، سفیدی)۔
 لون - (لو۔ ۱۰۔ ۱۰۔ مذ) نمک۔ کھار۔ لون۔ (لواد) جموں بھی صحیح ہے۔
 لون مریج لگانا - (۱۔ ۱۰۔ محاورہ) (۲) ہات کو برٹھا کر بیان کرنا۔ حاشیہ چڑھانا۔ بھڑکانا۔
 لوننا - (لو۔ نا) (۱۔ ۱۰۔ مٹھ) (۲) سوننا۔ نمکین (۳) کھاری۔ شور۔ گڑوا۔ (۴) وہ کھا رجو دیواروں یا زمین میں پیدا ہو جاتا ہے۔

لوگنار - (لوگنار) [ہ۔ ۱۔ ۱۔ مذ] ۱) شور مگی زمین۔ وہ زمین جس میں گھاؤ
 ۲) وہ جگہ جہاں نمک بنایا جاتا ہے۔
 لوٹن - (لوٹن) [ہ۔ ۱۰۔ مٹ] ۱) ٹوٹی۔
 لوٹنیر - (لوٹن - بڑ) [ہ۔ ۱۰۔ صفت] ۱) لمبا۔ طویل القامت (۲) احمق۔
 بے وقوف۔
 لوٹنچی - (لوٹن - جی) [ہ۔ ۱۰۔ مٹ] ۱) کچے آموں کی چھانکوں کا اچار۔
 لوٹنہ - (لوٹن - ہ) [ہ۔ ۱۰۔ مذ] وہ مہینہ جو ہر مہینے کے سال شمسی حساب سے بڑھایا
 جاتا ہے۔ اس کو لوٹنہ کا مہینہ بھی کہتے ہیں (۲) لکنایشہ [زیادہ۔
 فاضل۔
 لوٹنہ - (لوٹن - ۱۰) [ہ۔ ۱۰۔ مذ] ۱) ڈالا۔ ڈھیلہ (۲) گندھی ہوئی سٹی یا
 مکھن وغیرہ کا ڈالا (۳) گندھی۔
 لوٹنہ - (لوٹن - ۱۰) [ہ۔ ۱۰۔ مذ] ۱) لڑکا۔ چھوٹا۔ وہ لڑکا جس کے ڈاڑھی بچے
 نہ نکلی ہو (۲) بیٹا (۳) غلام (۴) کام کاج کرنے والا لڑکا (۵) یار۔
 مفعول۔ بد فعلی کرانے والا لڑکا (۶) لکنایشہ [نادان اور تجزیہ کار۔
 (۷) سفلہ چھوٹا
 لوٹنہ - (لوٹن - ۱۰) [ہ۔ ۱۰۔ مذ] ۱) چھوٹا پتھر۔ لڑکپن (۲) سفید پتھر۔ چھوٹا پتھر۔
 لوٹنہ - (Lavender) [انگ۔ ۱۔ مذ] ایک قسم
 کی خوشبودار گھاس (۲) ایک قسم کا انگریزی عطر۔
 لوٹنوں کھدیر کی (گھیر کی) - وہ عورت جو نوجوانوں کی تلاش میں سڑے۔
 لوٹنوں ہائی - (ہ۔ ۵۔ صفت) مٹ (۱) لڑکوں سے محبت رکھنے والی عورت۔
 لڑکوں سے صحبت رکھنے والی عورت۔
 لوٹنہ - (لوٹن - ۱۰) [ہ۔ ۱۰۔ مٹ] ۱) کبوتر۔ باندی (۲) خدمت کرنے
 والی خادمہ۔ تلمنی۔ (۳) مطیع۔ فرمانبردار (۴) احسان مند۔
 لوٹنہ اور کے پیر دھوئے اپنے پیر دھوئی لجاٹے۔ (۱) ایشل۔
 اوروں کا کام کرنا مگر اپنا کام کرتے ہوئے مٹرانا۔
 لوٹنہ - (لوٹنہ - ۱۰) [ہ۔ ۱۰۔ مذ] وہ شخص جو باندی کے پیٹ سے جو۔
 لوٹنہ - (لوٹنہ - ۱۰) [ہ۔ ۱۰۔ مٹ] ۱) چھوٹی (۲) بیٹی۔ دختر۔
 لوٹنہ کو لوٹنہ کہا رودی، بیوی کو لوٹنہ کہا تہنہ - (۱) ایشل۔
 شریعت کا حوصلہ بلند ہوتا ہے اور ذلیل کا کم۔
 لوٹنہ کی خوشامد سے سسرال میں باس - (۱) ایشل، نوکر اور
 خادموں کو خوش رکھنے سے مالک بھی خوش رہتا ہے۔
 لوٹنہ ہو کے کمانا بیوی ہو کے کھانا۔ (۱) ایشل، محنت سے مار
 نہ کرنے والا امیرانہ زندگی بسر کرنا ہے۔
 لوٹنہ باز - (۱) صفت] اعدام کرنے والا۔ بچہ باز۔ لوٹی۔
 لوٹنہ باز - (۱) صفت] اعدام کرنے والا۔ بچہ باز۔ لوٹی۔
 لوٹنہ لاڑیے - (۱) مذ] ناخبرہ کار بچے۔
 لوٹنہ - (ہ۔ ۱۰۔ مٹ) ۱) قرض۔ ایک خوشبودار و رخت کی کلی جو
 نہایت نیر اور خوشبودار ہوتی ہے (۲) ناک کا ایک زیور جو لوٹنہ
 کی شکل کا ہوتا ہے۔ ناک کی کیل۔

لوٹنہ چڑھے (لوٹنہ چڑھے) - (۱) مٹن کی ٹپکیاں۔ - بین کی آمیزش سے
 بنائے ہوئے کباب۔
 لوٹی - (لوٹی - بی) [۱] صفت] ۱) شور۔ کھار۔ (۲) وہ نمکین مٹی جو دیواروں
 سے بھرتی ہے۔
 لوٹی لگنا - (۱) محاورہ] دیوار میں شور لگنا۔
 لوٹیا - (لوٹن - یا) [ہ۔ ۱۰۔ مذ] ۱) ایک قسم کا ساگ جو نمکین اور ترش ہوتا
 ہے (۲) نمک بنانے والا (۳) نمک فروش۔ نمک کی سوداگری
 کرنے والا۔
 لوہ - (لوہ - ۱) [ہ۔ ۱۰۔ مذ] لوہا۔ آہن۔
 لوہ پھلکڑی - (۱) مٹ] ایک قسم کی پھلکڑی۔
 لوہ پھون - (۱) مذ] لوہے کا پھون۔ برادہ آہن۔
 لوہا - (لوہ - ۱) [ہ۔ ۱۰۔ مذ] ۱) آہن۔ مدید (۲) گنایشہ [مضبوط۔ سخت
 بھاری (۳) تلوار۔
 لوہا بجاتا - (۱) محاورہ] نیک زنی کرنا۔ تلواروں سے لڑنا۔
 لوہا برسنا - (۱) محاورہ] تلوار چلنا۔ کشت و خون ہونا۔ جنگ ہونا۔
 لوہا تیز ہونا - (۱) محاورہ] ۱) تلوار یا پھیری کا تیز ہونا۔ (۲) قابو چلنا۔
 زور چلنا (۳) خفا ہونا۔ بگڑنا۔ غالب ہونا۔
 لوہا جلنے لوہا جانے دھونکنے والے کی بلا جانے۔ (۱) ایشل۔ اپنے
 معاملے کو تو فریقین ہی اچھی طرح سمجھتے ہیں دوسرے کو کیا خبر۔
 لوہا ویشا - (کرنا) [۱] محاورہ] کپڑے کو استری کرنا۔
 لوہا لاٹھ - (۱) صفت] ۱) نہایت مضبوط۔ بہت سخت (۲) مشکل لایا
 ردیف کے اشعار۔
 لوہا لوٹ جانا - (۱) محاورہ] تلوار کا ٹیڑھا ہونا (۲) وار خالی ہونا (۳)
 (۳) لکنایشہ] کام بگڑ جانا۔ نصیب بگڑ جانا۔
 لوہا مان جانا۔ (ماننا) [۱] محاورہ] کسی کی دلیری و شجاعت یا سنگدل
 کا قائل ہونا۔ (۲) کسی کو اپنے سے بڑا ماننا۔ کسی کی استادی کا قائل
 ہونا۔
 لوہار - (۱) مذ] لوہے کی چیزیں بنانے والا۔ آہن گر۔
 لوہار خانہ - (۱) مذ] جس جگہ لوہار کام کرتے ہیں۔
 لوہڑی - (ہ۔ ۱۰۔ مٹ) دیکھیے لوڑھی۔
 لوہو - (۱) مذ] لوہ کی قدیم صورت۔
 لوہے ٹھنڈے ہو گئے - (۱) محاورہ] حوصلہ پست ہو گیا۔ اُمتگ
 غالب ہو گئی۔ امانہ جانا رہا۔
 لوہے کا پانی - (۱) مذ] تلوار کی آب۔
 لوہے کا دل - (۱) صفت] نڈر۔ سخت دل۔
 لوہے کی چھاتی کر لینا - (۱) محاورہ] ۱) پیڑ کا جگر کر لینا۔ دل سخت
 کر لینا۔ (۲) مصیبت چھیلنے کا شوگر ہو جانا۔
 لوہے کے چینے - (۱) مذ] سخت اور مشکل کام۔
 لوہے کے پتے چھانا - (۱) محاورہ] سخت اور مشکل کام کرنا۔

ترنگہ - (۳) وجد - حال (۴) دم - خیال (۵) دیوانگی - سودا جذبہ جنون - (۶) کسی مرض یا زہر وغیرہ کا دورہ - مہرک (۷) سوزش جلن - تیزی - طیس - چمک (۸) خواہش جماع - خرمستی (۹) کشیدہ کی دھاری و بیل - (۱۰) ہرے پودوں کی تیشش - بلہماہٹ (۱۱) دھیان - کسی کی یاد یا خیال کا دل میں آنا - (بفتح اول دروم بھی صحیح ہے) لہر آنا - (۱- محاورہ) ۱۱) موج آنا - تامل ہونا (۲) نصرت نہ دینا - خیال آنا - (۳) شوق پیدا ہونا (۴) زہر کے اثر سے پیچ و تاب کھانا - لہر اٹھنا - (۱- محاورہ) ۱۱) موج کا اونچا ہونا - ترنگ آنا (۲) جوش اٹھنا - شوق پیدا ہونا (۳) ارادہ ہونا - خیال پیدا ہونا - (۴) طیس اٹھنا - لہر اڑانا - (۱- محاورہ) تان لگانا - مٹکانا (۲) پیہم مارنا - متواتر پھینکا - لہر بہرہ - (۱) نحو شمالی - نحو اقبالی (۲) کسی چیز کی افراط - لہر بہرہ ہونا - (۱- محاورہ) روپے پیسے کی طرف سے فارغ البالی ہونا - اقبال یا ور ہونا -

لوہے میں ڈوبا ہونا - (۱- محاورہ) پوری طرح مسلخ ہونا - لوہیا - (۲) یا - (۱- صفت) لوہے کی چیزیں جیسے ڈالا (۲) [صفت] لوہے کا - لوہے کا بنا ہوا - لوئر - (Lower) (انگ - ۱- صفت) ۱۱) چوٹا - ادنیٰ بگھٹیل (۲) ماتحت (۳) ابتدائی - لوئر پرائمری (Lower Primary) - پہلی تاپا پانچویں جماعت - لوئر سکول - (انگ - ۱- مذ) ابتدائی سکول - چھوٹا سکول - لوئر کلاس - (انگ - ۱- مثن) ۱۱) ابتدائی جماعت - چھوٹا درجہ (۲) پنجلا طبقہ - لونی - (۱- لونی) (۲- مثن) ۱۱) آونی چادر (۲) گندھے ہوئے آٹے کا پتلا - لونی اترنا - (۱- محاورہ) بے غیرت ہونا - لوہے والے - (۱- مثن) ۱۱) اوپر کو (۲) قریب - نزدیک - لوہے لگانا - (۱- محاورہ) یقین ہونا - اعتبار ہونا (۲) پاس آنا - قریب آنا - لوہیں پھرنانا - (۱- محاورہ) نزع کی حالت میں کان کی لوہیں پھرنانا -

ل - ہ

لہار - (دل - ہار) (۱- مذ) نشہ (۲) لہر - لہار - (دل - ہار) (۱- مذ) لہار کا محقق - لہار اڑا - (دل - ہار) (۱- صفت) ۱۱) ناوہند - لین دین کا کھوٹا - لیکر نہ دینے والا - لہاس - (دل - ہاس) (۱- مذ) ۱۱) موٹا رتہ (۲) جہاز کار رتہ (۳) بٹا ٹوکرا - مجال - لہاسی - (دل - ہاسی) (۱- مثن) کشتی کھینچنے کی چھوٹی رسی - لہان - (دل - ہان) (۱- صفت) ۱۱) خون آگود - لہو سے لہنڈا ہوا - یہ لفظ لہو کے ساتھ بطور لاحقہ استعمال ہوتا ہے جیسے لہو لہان - لہاؤ - (دل - ہاؤ) (۱- مذ) ۱۱) چھپلے - بخرے - کہنبرہ - (دل - ہرہ) (۱- مذ) ۱۱) پورے - لہاؤہ - جیبہ (۲) ایک قسم کا دراز قد طوطا - (۳) چھپرہ - نیزہ - علم - جھنڈا - نشان - لہٹنا - (دل - ہٹنا) (۱- صفت) ۱۱) طبیعت کا مائل ہونا - لہجہ - (دل - ہجہ) (۱- مذ) ۱۱) الفاظ کی آواز - تلفظ کلام (۲) زبان - محاورہ - بول چال (۳) طرز کلام - انداز گفتگو - (۴) لہے - لہر - لہجوں - (دل - ہجون) (۱- مذ) ۱۱) لہو ہون کا محقق - لوہے کا بڑا - لہڈا - (دل - ہڈا) (۱- صفت) ۱۱) مائل - اسی واسطے - اسی لیے - پس - الحاصل - الغرض - النقصہ - لہر - (۱- مثن) ۱۱) پانی کی موج - تامل جموار - جھاڑ (۲) اُننگ -

لہر چڑھنا - (۱- محاورہ) ۱۱) پانی کا زور پر ہونا (۲) زہر کا اثر کرنا - لہر چھوٹنا - (۱- محاورہ) ۱۱) مستی چھوٹنا - جماع کو جی چاہنا - لہرس گننا - (۱- محاورہ) وقت ضائع کرنا - بگاڑ رہنا - تضيع اوقات کرنا - لہرس لینا - (۱- محاورہ) لہرانا - چھوٹنا - ہٹنا (۲) دریا کا مومیں مارنا - لہرا - (دل - ہا) (۱- مذ) ۱۱) جلتی ہوتی ہے - طبیعت میں جوش پیدا کرنے والی رتہ - سازگی کی ایک گت (۲) رتہ - آواز - لے - تھلا - ختمہ - (۳) لکھنا یا جو تھیل مارنا - تڑا تڑا مارنا - لہرا اڑانا - (۱- محاورہ) رتہ کی آواز سے گانا - (۲) خوب مارنا - لہرانا - (دل - ہانا) (۱- مثن) ۱۱) موج مارنا - پانی کا لہرس لینا - (۲) بلہما ہٹنا - جیش کرنا (۳) اڑنا (۴) ختمہ لے بھرنانا (۵) لہپانا - مائل ہونا (۶) سانپ کا چبنا - لہری - (دل - ہری) (۱- صفت) ۱۱) تڑنگی - موجی - دل چلا - خود سر زندہ دل - ظریف - بھٹھول - خوش مزاج - لہریا - (دل - ہریا) (۱- صفت) ۱۱) لہرا - دھاری دار (۲) [مذکر] ایک قسم کا لہڑا، جس میں آڑی ترجمی دھاریاں ہوتی ہیں - لہسن - (دل - ہسن) (۱- مذ) ۱۱) دیکھ لسن - پیاز سے مشابہ ایک ترکاری جو ہنڈیا میں بطور مصالحہ استعمال ہوتی ہے - لہسنیا - (دل - ہسن) (۱- صفت) ۱۱) لہسن کے رنگ سے مشابہ ایک مٹن قیمت جواہر - لہسن کا سا - لہسن سے متعلق - لہکت - (دل - ہکت) (۱- مثن) ۱۱) شکرہ - لاسٹ (۲) بلہماہٹ - ہمار جوہن - (۳) چمک - (۴) خوشبو ہونے کے ساتھ پھیلے - لہک لہک کر - (۱- تابع فعل) بھوم بھوم کر - خوش ہو کر لہک لہک کر کے ساتھ - لہکارنا - (دل - کارنا) (۱- صفت) ۱۱) چکارنا - بھینکی دینا - لہکارنا - (دگر بولے وغیرہ کو) لہکانا - (دل - کانا) (۱- مثن) ۱۱) بھولنا - لہکانا - (۲) اُننگ لگانا -

لے بڑھتا۔ پڑنا۔ (۱۔ محاورہ) چسکا لگنا۔ عادت پڑنا۔ مرہ پڑنا۔
 لے بھول جانا۔ (۱۔ محاورہ) عادت بھول جانا۔ (۲) سٹی گم ہو جانا۔
 لے چھانا۔ (۱۔ محاورہ) آواز کا گونج جانا۔ کسی مقام میں کینیت طاری
 ہونا۔
 لے لینا۔ (۱۔ محاورہ) گانا۔ الاپنا۔
 لے میں ڈوبی ہوئی آواز۔ (۱۔ مٹ) وہ آواز جو اصول موسیقی کے
 مطابق نہ ہو۔
 لے۔ (۵) پائے بھول سے۔ ۱۔ نفل۔ بیٹا کا امر (۱) پکڑ۔ گرفت کر (۲) نبھالنا۔
 نالو کر (۳) اجرت نداد و جہت امتیاز ہو۔ سن۔ جان۔ آگاہ ہو۔
 دیکھ۔ (۴) تابع فعل آسے کر۔ ساتھ لے کر۔ کرنات کے شروع میں
 استعمال ہوتا ہے۔ جیسے لے بھاگ۔ لے آؤ وغیرہ۔
 لے آنا۔ (۱۔ محاورہ) کوئی چیز اٹھا لانا۔ (۲) بھاگ کر کسی کو ہمراہ لانا (۳) باہر سے
 لانا (۴) دوسرے مقام سے لانا۔
 لے اڑنا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) لے کر بھاگ جانا (۲) بھڑکا دینا۔ تیز کرنا۔ (۳)
 نشتے میں ہونا۔ نشتے میں ہوش و حواس کھو دینا۔ مرہ دوہلا کر دینا۔
 (۴) رونق بڑھا دینا (۵) لے جانا۔ ہتھیار دینا (۶) نقل اڑا لینا (۷) طرز
 حاصل کر لینا۔ (۸) ہانت کا ہتھیار بنا دینا۔
 لے بھاگنا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) کسی چیز کو لے کر فرار ہو جانا۔ لے کر چل دینا۔
 (۲) بھاگ کر لے جانا۔ (۳) کسی کی طرز اڑا لینا۔
 لے بھاگو۔ (۱۔ صفت) (۱) طرز اڑا لینے والا (۲) وہ شخص جس نے بغیر
 اسناد کے کوئی کام اہمیتا کر لیا ہو۔ بے اسناد۔ عطائی
 لے بھٹی۔ (۱۔ تابع فعل) میں کرنا ہوں۔ سنو یا۔ (۲) بڑا خوبصورت۔
 لے بلٹھنا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) لے ڈوبنا۔ اپنے ساتھ دوسرے کو بھی تباہ
 برباد کر دینا۔ (۲) اپنے ساتھ کرنا (۳) کسی عورت کو گھر میں ڈال
 لینا۔
 لے پالک۔ (۱۔ صفت) متبہنی۔ گود لیا ہوا۔ وہ بچہ جسے لے کر پال
 لیا گیا ہو۔
 لے پڑنا۔ (۱۔ محاورہ) ساتھ لے کر لیٹ جانا۔ ساتھ لے کر گہ پڑنا۔
 لے جانا۔ (۱۔ محاورہ) کسی چیز کو اپنے ساتھ لے کر چلے جانا۔
 لے دوڑنا۔ (۱۔ محاورہ) بے مترغ اور بے ڈھنگے طریقے سے بیان
 کرنا۔ (۲) ساتھ لے کر دوڑنا۔
 لے دے۔ (۱۔ مٹ) (۱) لینا دینا (۲) کبھی لینا کبھی دینا (۳) دوڑ
 ڈھوپ۔ جدوجہد۔ کوشش (۴) سرزنش۔ لعنت۔ ملامت۔ لٹا
 لے دے کر (دے کر)۔ (۱۔ تابع فعل) بڑی محنت اور کوشش سے
 بشکل (۲) بے باق کر کے دے دلا کر۔ کاٹے کاٹے بانٹ پٹ
 کے (۳) صرف۔ فقط۔ مکہم۔
 لے دے کرنا۔ (۱۔ محاورہ) خوب کوشش کرنا۔ جدوجہد کرنا۔ (۲)
 سرزنش کرنا۔ لعنت ملامت کرنا۔ ڈانٹنا۔ (۳) مار پیٹ کرنا۔
 لے دے ہونا۔ (۱۔ محاورہ) نقل و حرکت پر اتفاقاً ہونا۔

کے اپنے آب کو بڑوں میں شمار کرنا۔ کسی کام میں غمناک شریک
 ہو کر اپنا نام کرنا۔
 لٹو لٹان۔ (۱۔ صفت) خون آلودہ۔ خون میں لخترا ہوا۔
 لٹو لٹان کرنا۔ (۱۔ محاورہ) ایسا زخمی کرنا کہ تمام بدن خون آلود ہو جائے
 لٹو لینا۔ (۱۔ محاورہ) خون لینا۔ فصد کھولنا۔ فصد کھلوانا۔
 لٹو پٹنا۔ (۱۔ محاورہ) میل جول ہونا۔ اتحاد ہونا۔
 لٹو میں تھانا۔ (۱۔ محاورہ) بہت زخمی ہونا۔
 لٹو میں ہاتھ زنگنا۔ (۱۔ محاورہ) خون کرنا۔ قتل کرنا۔ (۲) کسی کے
 خون سے ہاتھوں کو رنگین کرنا۔
 لٹو ہو کر بہہ جانا۔ (۱۔ محاورہ) دل وجگر کا خون ہو کر بہہ جانا۔ (شاعرانہ)
 نخیل ہے۔
 لٹو ہونا۔ (۱۔ محاورہ) مجروح ہونا۔ زخمی ہونا (۲) سُرخ ہونا۔ لال ہونا
 لٹو۔ زرع۔ ۱۔ مکہ کرنا کھیل۔ بازی۔
 لٹو و کٹیج۔ (ع۔ ۱۔ مکہ) کھیل کود۔ سیر و تفریح۔ عیش و نشاط و تفریح۔
 ہنسی۔ مذاق۔
 لٹوا۔ (۱۔ ذ۔ ۱) (۱) لٹو لٹا۔ تلوار۔
 لٹو اچا پنا۔ (۱۔ محاورہ) لٹو اچا پنا۔ بہادری دکھانا۔
 لٹو اور۔ (۱۔ ذ۔ ۱) (۱) لٹو اور۔
 لٹو بندھی۔ (۱۔ ذ۔ ۱) (۱) لٹو اور۔ (۲) مٹا کر کسی کے ذریعے نئی جگہ
 سے اچھی جگہ (دکیت وغیرہ) میں پائی پھینچنا۔

ل۔ و۔ ل۔

لٹی۔ (۱۔ صفت) بہت۔
 لیجے۔ (۱۔ تابع فعل) واسطے۔ اس غرض سے۔
 لیجے بیٹھنا۔ (۱۔ محاورہ) فصد کرنا۔
 لیجے پھرتا۔ (۱۔ محاورہ) بار بار ذکر کرنا۔ بار بار کہنا۔ (۲) ساتھ لے کر
 چلنا۔
 لیتیق۔ (۱۔ ذ۔ ۱) (۱) لٹو اور۔ صفت آلتیق۔ قابل۔
 لیتیم۔ (۱۔ ذ۔ ۱) (۱) لٹو اور۔ صفت [۱] وہ بخوش جوتہ خود کھائے، نہ دوسروں
 کو دے (۲) کینتہ سفید۔
 لیتیم الطبع۔ (ع۔ صفت) وہ شخص جس کی طبیعت میں بخوشی اور حسرت ہو۔

ل۔ و۔ ل۔

لے۔ (۱۔ مٹ) (۱) آواز بھر آہنگ۔ لمن۔ ہمیر (۲) شوق۔ آرزو۔
 تمنا۔ (۳) دھن۔ رٹ (۴) تسلسل۔ سلسلہ۔

کوشش ہونا۔

لے ڈالنا۔ (۱- محاورہ) شامل کر لینا (۲) تباہ کر دینا (۳) عاجز کر دینا۔

لے وینا۔ (۱- محاورہ) دلوانا۔ خرید لینا۔ مول لے وینا۔

لے ڈوبنا۔ (۱- محاورہ) اپنے ساتھ دوسرے کو بھی ڈوبوینا۔ (۲) اپنے ساتھ دوسرے کو بھی نقصان پہنچانا۔

لے کر (کے) بیٹھنا۔ (۱- محاورہ) بیان کرنا۔ لے کے چاٹنا۔ (۱- محاورہ) جب کوئی چیز بیکار ہوتی ہے یا وہ دینے سے انکار کرے تو اس کی نسبت کہتے ہیں۔

لے لوٹ۔ (۱- صفت) قرض لے کر نہ دینے والا۔ ناوہند۔ لے کر بکربانے والا۔ لیچڑ۔

لے لے جوٹا۔ (۱- محاورہ) اعتراضات ہونا۔

لے لینا۔ (۱- محاورہ) (۱) بچپن لینا۔ مار لینا۔ (۲) خرید لینا۔ (۳) کال کر لینا۔ (۴) ابھار لینا۔ (۵) باپس کر لینا۔ (۶) پھیر لینا۔ (۷) جا پہنچنا۔ منزل طے کر لینا۔ (۸) جا لینا۔ (۹) پکڑ لینا۔ (۱۰) ہم پہنچانا۔ حاصل کر لینا۔

لے مرنا۔ (۱- محاورہ) (۱) لے ڈوبنا۔ لے بیٹھنا۔ اپنے ساتھ دوسرے کو بھی نقصان پہنچانا۔ (۲) الزام دھرنا۔ چوری لگانا۔ (۳) دبا لینا۔ مار لینا۔ (۴) حاصل کر لینا۔ کما لینا۔

لیے۔ (بی۔ یے) (۱) حروف جار واسطے۔ برائے (۲) مفعول جمع مذکر کی صورت میں لیا کے بجائے (۳) تخیل فعل کے لیے بیٹھ گیا آپ نے انگو رکھا لیے۔ (۴) [تابع فعل] لیے ہوئے ہے کہ۔

لیا یا ویا۔ (یہ۔ ا۔ مذ) اعمال کا نتیجہ۔ کرنی کا پھل۔ وہ نیکی جو کبھی کی ہو۔ لیا دیا آگے آجانا۔ (۱- محاورہ) نیکی بری کا نتیجہ ملنا۔ کرنی کا پھل ملنا۔

لیاقت۔ (ل۔ یا۔ ق۔ ت۔ ز۔ ع۔ م۔ ث۔) قابلیت۔ استعداد (۲) وصف جو بر۔ خوبی۔ عمدگی (۳) دانائی۔ ہوشیاری (۴) کسی چیز کے حاصل کرنے کا مادہ (۵) شائستگی۔ تمیز (۶) حوصلہ (۷) ظرف۔ مقدور۔ مقدرت۔

لیا گیا۔ (۱- محاورہ) (۱) نخر مندہ ہوا۔ زسوا ہوا۔ ذلیل ہوا۔ لیا ہی نہیں جاتا۔ (۱- محاورہ) مٹانے نہیں مٹا۔ سنبھالے نہیں سنبھلتا (۲) دھوکا نہیں کھانا۔

لیالی۔ (ع۔ ا۔ م۔ ث۔) راتیں۔ لیل کی جمع۔

لیام۔ (ع۔ ص۔ ب۔ ت۔ م۔ ج۔ م۔ ج۔ و۔ ی۔ ی۔ ی۔ ی۔ م۔) لیٹل۔ (بی۔ بیال) (۱- م۔ م۔ م۔) (۲- م۔ م۔ م۔) (۳- م۔ م۔ م۔)

لیا تھا۔ (لی۔ یا۔ ن۔ یا۔ ر۔) (۱- م۔ م۔ م۔) (۲- م۔ م۔ م۔) (۳- م۔ م۔ م۔) (۴- م۔ م۔ م۔) (۵- م۔ م۔ م۔)

لیبارٹری۔ (Laboratory) لے۔ (۱- م۔ م۔ م۔) (۲- م۔ م۔ م۔) (۳- م۔ م۔ م۔) (۴- م۔ م۔ م۔) (۵- م۔ م۔ م۔)

لیبٹر۔ (لے۔ بٹر) (۱- م۔ م۔ م۔) (۲- م۔ م۔ م۔) (۳- م۔ م۔ م۔) (۴- م۔ م۔ م۔) (۵- م۔ م۔ م۔)

لیبٹری۔ (۱- م۔ م۔ م۔) (۲- م۔ م۔ م۔) (۳- م۔ م۔ م۔) (۴- م۔ م۔ م۔) (۵- م۔ م۔ م۔)

لیبر پارٹی۔ (Labour Party) (۱- م۔ م۔ م۔) (۲- م۔ م۔ م۔) (۳- م۔ م۔ م۔) (۴- م۔ م۔ م۔) (۵- م۔ م۔ م۔)

مزدوروں کی جماعت (۲) انگلستان کی ایک سیاسی پارٹی جو مزدوروں کی نمائندگی کی دعویٰ دار ہے۔

لیبر گورنمنٹ۔ (Labour Government) (۱- م۔ م۔ م۔) (۲- م۔ م۔ م۔) (۳- م۔ م۔ م۔) (۴- م۔ م۔ م۔) (۵- م۔ م۔ م۔)

مرٹ [لیبر پارٹی کی حکومت]۔

لیڈر۔ (بی۔ بٹر) (۱- م۔ م۔ م۔) (۲- م۔ م۔ م۔) (۳- م۔ م۔ م۔) (۴- م۔ م۔ م۔) (۵- م۔ م۔ م۔)

لیڈل۔ (Label) (۱- لے۔ بی۔ ن۔) (۲- م۔ م۔ م۔) (۳- م۔ م۔ م۔) (۴- م۔ م۔ م۔) (۵- م۔ م۔ م۔)

یادداشت کا ٹکڑا جو کسی چیز پر اس کا نام، نوعیت اور مالک کا پتہ نشان وغیرہ بتانے کے لیے لگا جاتا ہے۔ چٹ۔ سنٹر۔ لیٹیپ۔ (بائے مجموعی سے) (س۔ ا۔ م۔ م۔ م۔) (۲- م۔ م۔ م۔) (۳- م۔ م۔ م۔) (۴- م۔ م۔ م۔) (۵- م۔ م۔ م۔)

لیٹیا۔ (بی۔ پی۔) (۱- م۔ م۔ م۔) (۲- م۔ م۔ م۔) (۳- م۔ م۔ م۔) (۴- م۔ م۔ م۔) (۵- م۔ م۔ م۔)

لیٹیا پوسٹا۔ (۱- م۔ م۔ م۔) (۲- م۔ م۔ م۔) (۳- م۔ م۔ م۔) (۴- م۔ م۔ م۔) (۵- م۔ م۔ م۔)

لیٹیا پونی کرنا۔ (۱- محاورہ) بات بنانا۔ ہانے کرنا۔ پردہ پوشی کرنا۔

لیپ پوسٹ برائے کرنا۔ (۱- محاورہ) عیب چھپانا۔ پردہ پوشی کرنا۔

لیپ چیپ۔ (۱- م۔ م۔ م۔) (۲- م۔ م۔ م۔) (۳- م۔ م۔ م۔) (۴- م۔ م۔ م۔) (۵- م۔ م۔ م۔)

لیپ کا سال۔ (۱- م۔ م۔ م۔) (۲- م۔ م۔ م۔) (۳- م۔ م۔ م۔) (۴- م۔ م۔ م۔) (۵- م۔ م۔ م۔)

لیپن۔ (سے۔ پی۔ ن۔) (۱- م۔ م۔ م۔) (۲- م۔ م۔ م۔) (۳- م۔ م۔ م۔) (۴- م۔ م۔ م۔) (۵- م۔ م۔ م۔)

لیپٹا۔ (لیپٹ۔ ٹا۔) (۱- م۔ م۔ م۔) (۲- م۔ م۔ م۔) (۳- م۔ م۔ م۔) (۴- م۔ م۔ م۔) (۵- م۔ م۔ م۔)

لیٹ (Late) (انگ صفت) دیر سے آنے والا۔ (تابع فعل)
 (۲) دیر سے بے وقت۔ وقت کے بعد۔ مار کے پیچھے۔
 لیٹر (Letter) لے۔ لٹر [انگ ۱۰۔ مٹر خط۔ چٹھی۔
 لیٹر بکس۔ (Letter Box) خطوں کا صندوق۔ ڈاک خانہ
 کا سرخ ڈب جس میں چٹیاں ڈالتے ہیں۔
 لیٹرائن (Latrine) لائنٹ۔ [انگ ۱۔ مٹر] پانخانہ۔
 سنڈاس۔
 لیٹنا۔ (لیٹ) [نا] [اص] [۲] سیدھا ہو کر پٹنا۔ پستنا۔ سونا۔ آرام کرنا۔
 (۲) پاؤں پڑنا۔ (۳) خوشامد کرنا۔ عجز کرنا۔ (۴) بارمانا۔ منگلوب
 ہونا۔ (۵) زمین پر گر جانا۔
 لیٹے جانا۔ (۱) محاورہ) خوشامد کرنا۔ بچ جانا۔ (۲) ہمت ہار دینا۔
 بیچ (لیجو) [ھ] [۱۔ مٹ] [۲] جیسے ڈول وغیرہ کے ساتھ بانڈھ کر کنویں
 سے پانی نکالتے ہیں۔ (بیاتے جمول)۔
 لیجر (Ledger) (لے۔ جمر) [انگ ۱۔ مٹ] [۲] روزنامہ۔ یہی
 ط کھاتہ۔ روزانہ حساب کی کتاب۔
 لیجسلیٹیو اسمبلی۔ (Legislative Assembly) لے۔ جن۔
 لے۔ کیو۔ اسمب۔ لی [انگ ۱۔ مٹ] [صوبے (یاملک)
 کی مجلس قانون ساز۔
 لیجسلیٹیو کونسل (Legislative Council) انگ ۱۔
 (مٹ) صوبے یا ملک کی مجلس قانون ساز جس میں خاص طبقوں
 کے نمائندے شامل ہوں۔
 لیجی۔ (لی۔ جھی) [ھ] [۱۔ مٹ] [۲] وہ چیز جو پان کی گھڑی کو عرق نکلنے
 کے بعد رہ جاتی ہے۔ (پان کی جھی) [۲] کنایتاً گرم اور کھلی چیز۔
 لیچر۔ (لی۔ چر) [ھ] [صفت] [۱] خجیس۔ بخیل۔ کنجوس [۲] نادہند۔
 قرض لے کر نہ دینے والا۔ بد معاہدہ۔
 لیچر پین۔ (۱) مذ۔ کنجوسی۔ بختی [۲] نادہندگی۔ بد معاہدگی۔
 لیچی۔ (لی۔ چی) [جینی] [۱۔ مٹ] [۲] ایک گھر دوسے چھپنے والا۔ مٹھی
 نال شیریں پھل۔
 لیڈ۔ (ھ۔ ۱۔ مٹ) گھوڑے، گدھے، باغی وغیرہ کا فصدہ یا گوہر۔
 لیڈر۔ (لے۔ ڈر) [انگ ۱۔ مٹر] [۲] گنا یا پتھر چمڑا۔ (Leather)
 لیڈر (Leader) [لی۔ ڈر] [۱] رہنما۔ سرکردہ۔ سربراہ۔ سردار۔
 (۲) ایڈیٹر کا کھٹا ہوا مضمون۔ ایڈیٹر۔
 لیڈنگ آرٹیکل۔ (انگ ۱۔ مٹر) دیکھئے لیڈر۔
 لیڈی۔ (Lady) لے۔ ڈی [انگ ۱۔ مٹ] [۱] بی بی بیگم۔
 (۲) معزز عورت۔ خاتون [۳] لارڈ کی بیگم۔
 لیٹر۔ [ھ] [۱۔ مٹ] [جھی]۔ کتر۔ کپڑے کی لمبی اور تنگی سی۔ چھتھر۔
 لیٹر لیر کرنا۔ (۱) محاورہ) دھجیاں اڑانا۔ پھاڑ ڈالنا۔ ٹکڑے ٹکڑے
 لیر کرنا۔
 لیریں لگنا۔ (۱) محاورہ) پڑانا ہو کر لباس کا تار تار ہو جانا۔ (۲)

غریب ہونا۔
 لیری۔ (لی۔ ری) [ھ] [۱۔ مٹ] [۲] لنگوتے کے پچھلے میں لگنے کی
 لمبی دھجی۔
 لیرے۔ (لی۔ رے) [ھ] [۱۔ مٹر] [۲] چھتھرے۔ دھجیاں (عموماً جمع استعمال
 ہوتا ہے)۔
 لیرے لگنا۔ (۱) محاورہ) کپڑے بھٹ جانا۔ کپڑوں کا تار تار ہونا۔
 لیوزم۔ (لی۔ زم) [رف] [۱۔ مٹ] [۲] ایک قسم کی نرم اور چمک دار کان
 جس میں لوستے کی زنجیر اور بہت سی گولیاں پڑی ہوتی ہیں۔
 لیٹس۔ (لے۔ صفت) کمر بستہ۔ بستہ۔ تیار۔ آمادہ۔ کپل کانٹے سے
 درست۔
 لیٹس (Lace) [انگ ۱۔ مٹ] [۲] نیتہ۔ جھار۔ گولٹا کئی
 ڈوری۔
 لیٹس۔ [ھ] [۱۔ مٹ] [۲] چھپا۔ چھپا ہٹ۔ (ف۔ حرف) چاٹے
 والا مرکبات میں جیسے کا سیر لیس۔
 لیٹس۔ (۱) صفت) چھپا۔ چھپنے والا۔
 لیٹنا۔ (لیٹس) [نا] [اص] [۲] پستہ کرنا۔ لیٹنا۔ لگانا۔
 لیٹنگ۔ (ف) لیکن کا مخفف [بیاتے جمول] [۲]
 لیٹک۔ [ھ] [۱۔ مٹ] [۲] راہ۔ ہارٹ۔ شرک۔ کیڈی [۲] گاڑی
 کے پیسے کا نشان۔ (۳) انعام جو حسب دستور کمپنیوں کو دیا جاتا
 ہے۔ (۴) رقم و رواج۔ ریت۔ دستور۔ قاعدہ۔ داغ۔ عیب۔
 لیٹک پٹنا۔ (۱) محاورہ) [۲] لیکر پٹنا۔ قدیم رقم و رواج اور چلنے
 دستور پر چلنا [۳] کسی بات کو بار بار دہرانا۔
 لیٹک سے بے لیک ہونا۔ (۱) محاورہ) گڑھ ہونا۔ بے راہ ہونا۔
 سیدھا راستہ چھوڑ دینا۔
 لیٹک چلنا۔ (۱) محاورہ) رستہ سے چلنا۔ راہ چلنا۔ چرنا
 رقم و رواج کا پابند ہونا۔
 لیکر۔ (Lacquer) لے۔ کر۔ [انگ ۱۔ مٹر] [۲] لکڑی۔ پتیل اور
 کاغذ وغیرہ پر لاکھ کی وارنش کا کام کشمیری نقش کاری۔
 لیکن۔ (لے۔ کن) [ف۔ حرف شرط] [انگ ۱۔ مٹر] [۲]
 لیکوریا۔ (Lecueraea) [انگ ۱۔ مٹر] [۲] احتناق [۲] رحم۔
 لیکوڈیٹر۔ (Liquidator) [انگ ۱۔ مٹر] [۲] بھگتان کرنے
 والا۔ قرض بے باقی کرنے والا۔ وہ سرکاری افسر جو کمپنیوں یا
 فرموں کے دیوالیہ ہو جانے پر بھگتان کرتا ہے۔
 لیکوڈیشن۔ (Liquidatin) [انگ ۱۔ مٹر] [۲] لیکو
 ڈیشن کی تحویل میں بھگتان۔
 لیکنہ۔ [ھ] [۱۔ مٹ] [۲] لکھی ہوئی چیز۔ سحر یہ [۲] نام لکھنا۔ دستخط
 [بیاتے جمول] [۲]
 لیکنہ۔ [ھ] [۱۔ مٹ] [۲] چھوٹی بٹوں۔ دھکت [۲] لیکر۔ لیک۔
 لیکنہ۔ (لے۔ کھا) [ھ] [۱۔ مٹر] [۲] حساب۔ لین دین [۲] پانچ حساب۔

بھی لکھتے (۳) معاملہ۔ برتاؤ۔
 لیکھا جو رکھا۔ (۵-۱) منہ لین دین۔ حساب کتاب۔
 لیکھا کرنا۔ (۱) محاورہ حساب کرنا۔ لین دین کی رقم معلوم کرنا۔
 لیکھے والا۔ (۵-۱) منہ سا ہو کار۔ اکاؤنٹنٹ۔ محاسب
 لیکھے۔ (ے کے) اھ۔ بلاغ فعل حساب سے حسابوں۔ نزدیک۔
 لیگٹ۔ (League) [انگ۔ ۱۔ منٹ] جمعیت۔ مجلس۔ جماعت۔
 لیگ آف نیشنز (League of Nation) (جمعیتہ الاقوام
 نیشن۔ (ع۔ ۱۔ منٹ) لات۔ شب۔ جمع۔ لیالی۔
 لیل و نهار۔ (ع۔ ۱۔ منہ) رات اردن۔ شب دروز۔
 لیللا۔ (ے۔ لا) اھ۔ ۱۔ مذنا بگری یا پھیر کا بچہ۔ بڑھ۔
 لیللا۔ (بی۔ لا) اس۔ ۱۰۔ منٹ اکیل۔ لہو و لعب۔ عیش و نشاط۔
 سیر و تماشا۔ کرتب۔ (۲) مہر و پ (۳) قدرت (۴) کرشمہ عجوبہ۔
 لیللا و صا رمی۔ (۵-۱) منٹ] ایکڑ۔ تماشا دکھانے والا۔
 لیللا جانا۔ (۱) محاورہ سوانگ رچانا۔ تماشا کرنا۔
 لیللا دیتی۔ عیش و صورت۔ عیش و نشاط کی رسیا عورت۔ (۲) خرم صورت۔
 حسین۔
 لیٹنٹ۔ (ے۔ لٹ) (ع۔ ۱۔ منٹ) [ایل۔ رات۔ شب۔ (اصل لیٹنٹ
 لیٹنٹہ اکا لٹرا۔ (ع۔ ۱۔ منٹ) شب معراج۔
 لیٹنٹہ لیٹنٹ۔ (ع۔ ۱۔ منٹ) قری سینے کی چوڑھویں رات جس میں
 چاند پورا ہوتا ہے۔
 لیڈر (الڈر۔ (ع۔ ۱۔ منٹ) (مفضلان المبارک کے آخری عشرہ کی
 ایک طاق رات جس میں عبادت کرنے کا ثواب ہزار ماہ سے
 زیادہ ہوتا ہے۔
 لیلا۔ (بی۔ لے۔ لا۔ لے۔ لی) (ع۔ صفت و۔ ۱۔ منٹ) اکالی شب
 رنگ۔ سیاہ فلم۔ ساٹوئی (۲) قیس (مجنون) کی معشوقہ۔ (۳)
 مشرق۔ خوبصورت۔ حسینہ۔ جمیلہ۔
 لیلی را بچشم مجنون باید دید۔ (د۔ لٹ) معشوق کو عاشق کی نظر
 سے دیکھنا چاہیے۔
 لیلی تراوہ۔ (ع۔ ف۔ ۱۔ منٹ) معشوق۔ ماہ و ش۔
 لیمپ۔ (Lamp) [انگ۔ ۱۔ منٹ] چراغ۔ دیا۔
 لیمن (Lemon) لے۔ من [انگ۔ ۱۔ منٹ] لیٹو۔ نیبو۔ ترنج۔
 لیٹو۔ لیٹو۔ (بی۔ لے۔ لے۔ لی۔ ٹو۔ لی۔ ٹو) [انگ۔ ۱۔ منٹ] نیبو۔ ترنج۔ ایک
 ترش۔ گول پھل۔
 لیٹو جوڑا۔ (۱۔ صفت) معفت خواہ۔
 لیٹو نیڈ۔ (Lemonade) (لیٹو۔ نیڈ) [انگ۔ ۱۔ منٹ] لیٹو
 کو بیٹھاپانی یا شربت۔
 لیٹن۔ (۵-۱) منٹ] لینا کا محفت۔ حصول۔ حاصل کرنا (سب سے قبول)۔
 لین دین۔ (۱۔ منٹ) لینا دینا۔ داد و ستد (۲) حساب کتاب (۳)
 معاملہ۔ برتاؤ۔ بیوپار (۴) خرید و فروخت (۵) واسطہ تعلق۔

سفر کار۔ (۴) کاروبار۔ تجارت۔ سوداگری۔
 لین دین کرنا۔ (۱۔ منٹ) (۱) معاملہ کرنا (۲) معاملہ کرنا۔ بیوپار کرنا۔
 (۳) خرید و فروخت کرنا۔ کاروبار کرنا۔ تجارت کرنا۔
 لین۔ (Lane) [انگ۔ ۱۔ منٹ] گلی۔ تنگ روک۔
 لین۔ [انگریزی لائن (Line) کا بگاڑ۔ ۱۔ منٹ] (۱) لکیر۔ خط۔ جدول۔
 ٹول (۲) ڈوری۔ رسی۔ (۳) حد۔ پینڈھ (۴) قطار۔ صف۔ باڑ۔
 (۵) سطر (۶) لہے کی پٹری۔ ریل کی پٹری (۷) چھاونی کیمپ۔
 لین ڈوری۔ (۱۔ منٹ) (۱) وہ حصہ جو آگے جاتا ہے۔ پیش حصہ۔
 (۲) وہ فوجی سامان جو کوچ سے پیشتر روانہ کیا جاتا ہے۔
 لین کلیئر۔ (Line Clear) [انگ۔ ۱۔ منٹ] ریل کی پٹری صاف
 اور قابل آمد و رفت ہونے کی سند۔
 لینا۔ (ے۔ نا) [۱۔ منٹ] پھرتا۔ گرفت کرنا (۲) حاصل کرنا۔ اخذ
 کرنا (۳) سنبھالنا۔ سہارا۔ نفعنا (۴) خریدنا (۵) قرض لینا۔
 (۶) منج کرنا۔ جیتنا (۷) وصول کرنا۔ آگاہنا (۸) استقبال کرنا۔ (۹)
 پیش آنا (۱۰) [مذکر] وہ روپیہ جو لینا ہو۔ قرضہ۔
 لینا ایک نہ دینا دو۔ (۱) محاورہ حاصل نہ حصول۔ فائدہ نہ غرض۔
 کسی سے ایک لیں گے نہ دو دینے پڑیں گے۔
 لینا دینا۔ (۱) محاورہ (۲) لین دین۔ داد و ستد (۳) حساب کتاب
 (۴) برتاؤ۔ معاملہ۔
 لینا لوانا۔ (۱) مذ قابل وصول قرضہ۔
 لینا لینا۔ (۱) کلمہ مذا) بھاگتے ہوئے انسان یا چور کی نسبت
 بولتے ہیں (۲) گرتے ہوئے کے متعلق، لینا نفعانا۔
 لینا نہ دینا باتوں کا جمع خرچ۔ (۱) مثل، فنقول وقت گزارنا۔
 زری بائیں ہی آئیں کرنا، جن کا نتیجہ کچھ نہ نکلے۔ ناسخ کی درد دیکھا۔
 لینا نہ دینا، کارے نہ مسئلے۔ (۱) مثل، فنقول بے حدود۔ لانا
 بے فائدہ کچھ حاصل نہ حصول۔
 لینے آنا۔ (۱) محاورہ کسی کا استقبال کرنا۔
 لینے دینے میں نہ آنا (دھونا)۔ (۱) محاورہ بے تعلق ہونا۔ بے
 غرض ہونا۔
 لینے کو چھلی دینے کو کاٹنا۔ (۱) مثل، لیتے وقت اچھی چیز لینا۔
 اور دیتے وقت بری شے دینا۔
 لینے کے دینے پڑ جانا (پڑنا)۔ (۱) محاورہ فائدے کی جگہ نقصان
 ہونا۔ مصیبت میں پھنس جانا۔
 لینے میں نہ دینے میں۔ (۱) صفت نفع میں نہ نقصان میں۔
 بڑے میں نہ چھلے میں۔ بے تعلق اور بے غرض۔
 لینڈ۔ (Land) [انگ۔ ۱۔ منٹ] (۱) زمین (۲) مٹی (۳) سرزمین
 ملک۔
 لینڈ لارڈ۔ (Land Lord) [انگ۔ ۱۔ منٹ] مالک زمین۔
 زمین دار۔ (۲) مالک مکان۔

لیبٹی - (لے۔ نی) [ھ۔ ا۔ مٹ] وہ رسم جو بچے کو دایہ سے واپس لینے پر ادا کی جاتی ہے۔
 لیوا - (لے۔ وا) [ھ۔ صفت] او۔ ا۔ [مذ] لینے والا۔ محصل (۳) گائے بھینس یا بکری کا تختن۔ (۳) ہانڈی کے پیندے پر چڑھانے کی مٹی۔
 لیوا ڈیوے - (لے۔ وا۔ ڈے۔ وے) [ن] لین دین۔
 لیور - (Lever) (ڈی۔ وڑ) [انگ۔ ا۔ مذ] مقبض میں لگی ہوئی دھات کی سلاح جو وزن کو ادر اٹھا سکے۔
 لیول - (لے۔ وں) [انگ۔ ا۔ مذ] او، ہوا سطح (۲) مہاروں کا ایک اوزار جس سے سطح کی یکسانیت دیکھتے ہیں۔ گنیا۔ (۳) [صفت] مساوی۔ برابر۔ یکساں۔ ایک سطح پر۔ (Level)
 لیوی - (Levy) (ڈی۔ وی) [انگ۔ ا۔ مٹ] [۱] تحصیل محصول (۲) تحصیل مالگنداری یا لگان۔ وصولی ٹیکس (۷) جنگ کیلئے فوج کی بھرتی۔
 لیٹی - (لے۔ ہی) [ھ۔ ا۔ مٹ] [۱] دیکھیے لیٹی۔
 لیٹی - (لے۔ ای) [ھ۔ ا۔ مٹ] وہ لیڈار مادہ جو میدے کو پانی میں پکا کر کاغذ وغیرہ جوڑنے کے لیے بناتے ہیں۔

لیٹنڈ - (ھ۔ ا۔ ند) فنڈ۔ موٹی لینڈمی - گندگی۔ گوہ ریائے جمول (۱) لینڈو - (Landau) لین۔ ڈو [انگ۔ ا۔ مٹ] چار پیرو کی گاڑی جس کی چھت گرانی جا سکتی ہے۔ فنن۔
 لینڈمی - (لین۔ ڈمی) [ھ۔ ا۔ مٹ] [۱] چھوٹا لینڈ۔ بندھا ہوا پانچا۔ (۲) چھوٹا کتا جو شکار کے قابل نہیں ہوتا (۳) کتا (تیا) بڑوں۔ ڈرپوک - نامرد۔ (ریائے جمول)
 لینڈمی پھولنا۔ (ا۔ محاورہ) مغرور ہونا۔
 لینڈمی تر ہونا۔ (ا۔ محاورہ) غرور زیادہ ہونا۔ گھمبند بڑھنا۔ بہت خوش ہونا۔
 لینڈمی کتتا۔ (۱) بازاری اور عام کتا۔ (۲) ڈرپوک اور بڈوا کتا۔
 لینڈمی کتے کی موت مارنا۔ (ا۔ محاورہ) (۱) نہایت آسانی سے مار ڈالنا۔ (۲) نہایت ذلت سے ملنا۔
 لینن ازم - (Leninism) (لے۔ ن۔ ن۔ ازم) [انگ۔ ا۔ مذ] روسی اشتراکی لیڈر لینن کا انقلابی نظریہ۔
 لینوٹائپ - (Ljnotype) (لی۔ نو۔ ٹا۔ ٹپ) [انگ۔ ا۔ مذ] [۱] مشین جس میں الفاظ کی پوری سطر بیک وقت ڈھل جاتی ہے۔

م

[میم] (ع۔ مذ) اردو کا کتیسواں، فارسی کا اٹھائیسواں، عربی کا چوبیسواں اور ہندی کا پچیسواں حرف۔ حساب ابجد میں اس کے پالیس عدد فرض کیے گئے ہیں۔ یہ قمری حرف ہے اگر اس کے پہلے "ال" آئے گا تو ل، آواز دے گا۔ جیسے "المركز" عربی لفظ کے شروع میں مفتوح آئے تو اسے اسم فاعل بنا دیتا ہے۔ جیسے مجلس مظلوم۔ مضموم آئے تو اسم فاعل بنا دیتا ہے۔ جیسے محافظ۔ فارسی میں محبوب کے ذہن کی علامت۔ فارسی میں اسمائے اعداد کے بعد اگر ان کو صفت تریبئی بنا دیتا ہے جیسے دوم۔

م-۱

مقصود ہو تو بولتے ہیں۔

کابعد (ع۔ ف) پھلا بیچھے کا۔ پیچھے آنے والا۔ جو کچھ بعد میں آئے۔

کابعد الطبیعات (ع۔ ائٹ) البیات۔ فوق الفطرت۔

کابعد الطبیعی (ع۔ صف) ۱۰۔ بعد الطبیعات سے منسوب۔

کابقا۔ مابقی۔ مابقیہ (ع۔ ف) باقی بچا ہوا۔ جو باقی رہ گیا ہو۔

کابہ الامتیاز (ع۔ مذ) ضرورت کی چیز یا چیزیں۔ جن کی حاجت ہو۔

کابہ الامتیاز (ع۔ مذ) وہ چیز جس سے شناخت ہو سکے۔ باعث امتیاز نشان امتیاز

کابہ التزاع (ع۔ مذ) جھگڑے کی بنا۔ فساد کا باعث۔ وہ بات جس پر جھگڑا ہوا ہو۔

کامین (ع۔ تابع فعل) اثنا۔ وسط۔ دوران۔ درمیان۔ بیچ۔

کامین تحقیقات (ع۔ ف) تابع فعل، تحقیقات کے دوران میں۔

کامین فریقین (ع۔ تابع فعل) دو فریقوں (گروہوں) کے درمیان۔

کامحت (ع۔ صفت) ۱) زیر فرمان۔ زیر حکم۔ جو نیچے ہو تابع (۲) نائب۔ مددگار۔

ہاتھ بٹانے والا۔

کاتقدم (ع۔ صفت) آدل کا۔ پہلے کا۔ جو پہلے گزرے۔ مذکورہ بالا۔

کاتجرا (ع۔ مذ) ۱) مرکز گشت جو کچھ گزریا (۲) واقعہ۔ واردات (۳) حالت کیفیت۔

کاحصل۔ ماحصل (ع۔ مذ) ۱) حاصل شدہ۔ حاصل کی ہوئی شے۔ نتیجہ۔ پھل۔ ثمرہ۔

(۲) نفع۔ منافع۔ فائدہ (۳) پیداوار۔ غلہ۔ اناج جنس (م) خلاصہ۔ لب لباب۔

کاتحضر (ع۔ مذ) ۱) جو کھا نا موہو ہو جو کچھ حاضر ہو۔ وہ کھا نا جو تھوڑا سا ہو، اور

بے تکلف موجود اور حاضر ہو۔

کاحول (ع۔ مذ) ۱) گرد و پیش۔ پاس پڑوس۔

کادام۔ (ع۔ تابع فعل) ۱) ہمیشہ۔ مدا۔ دائم (۲) جب کہ۔ جب تک تا وقتیکہ (۳) [زنج]

بیگم۔ خاتون۔

کادام الحیات (ع۔ تابع فعل) عمر بھر۔ تمام عمر۔ زندگی بھر تا زیست۔

کامازع (ع۔ قرآن شریف کی آیت ما ازاع البصیر و کا لطفی۔ کی طرف اشارہ ہے۔

یعنی آن حضرت نے معراج کی شب مقام قرب الہی میں نہ کسی طرف آنکھ پھیری

اور نہ حکم الہی سے نافرمانی کی۔

کامسبق (ع۔ صفت) گزشتہ۔ گزرا ہوا۔ جو پہلے گزر چکا ہو۔ جو میت چکا ہو۔ اول الذکر۔

کامسلف (ع۔ صفت) گزرا ہوا۔ بیتا ہوا۔ گزشتہ۔

کامسوا (ع۔ حرف استثناء) ۱) بجز۔ علاوہ انہیں۔ علاوہ ہمیں۔ اس کے علاوہ۔ اس

کے سوا (۲) مصنفوں کی اصطلاح ذمت باری تعالیٰ کے سوا جو کچھ ہے اسوا

ہے۔

کامشائئہ (ع۔ کلمہ دما) ۱) جو اللہ نے چاہا۔ جو اللہ چاہے۔ جو خدا کرے۔ اگر خدا نے چاہا

کامآب (م۔ آب) (ع۔ ائٹ) ۱) لوٹ کر جانے کی جگہ۔ جہانے بازگشت۔ ۲) اپنی

کی جگہ (۳) جگہ۔ اردو میں جیسے عزت مآب۔ رسالت مآب۔ فضیلت مآب۔

کامآت (ع۔ مذ) ماہ کی تسخ صدا۔ کئی سو۔

کامآثر (م۔ کثیر) (ع۔ مذ) ۱) پچھے آثار۔ اچھے کام (۲) یادگار۔ نشانہ۔

(۳) قدیم مکان جس کے آثار باقی ہوں۔ ماثرہ کی جمع۔

کامآرب (ع۔ ائٹ) مآرب کی جمع۔ ضروری چیزیں۔ ضروریات۔

کامآل (م۔ آل) (ع۔ مذ) ۱) مریض۔ جاتے بازگشت۔ جاتے رجوع۔ ٹوٹنے کی جگہ۔

(۲) انجام۔ نتیجہ۔ خاتمہ۔ آخر۔

کامآندیش (ع۔ ف) صفت) دورانہش۔ انجام کو سوچنے والا۔

کامآندیشی (ع۔ ف) صفت) دورانہشی۔ سوچ بچار۔ انجام بینی۔

کامآل کار (ع۔ ف) تابع فعل ۱) انجام کار۔ آخر کار۔ آخر کو (۲) نتیجہ۔ کرنی

کا پہل۔

کامآ (م۔ ص) صفت) من کی جمع۔ ہم۔

کامآ (ع۔ حرف نفی) نہ۔ نہیں۔ صفت) ۱) اسم مفعول) جو کچھ۔ جو کہ۔ کوئی چیز (۲) کلمہ

استفہام) کیا۔ کیا چیز (۳) کون۔ کد نام (۴) کیوں کہ۔ کیسے۔ کیوں۔

کامآجیزو شامہ (صفت) لغو) ہم غیریت سے، تم سلامتی سے۔ ہم جدا، تم

جدا۔ ہم الگ تم الگ۔ ہمارا تم سے کوئی واسطہ نہیں۔

کامآبدولت (ف) ۱) مذ۔ مو) وہ کلمہ جو بادشاہ اپنے متعلق استعمال کرتے تھے۔

کامآدریہ خیالیم و فلک (صفت) خیالی است (ف) مثل) ۱) ہم کس خیال میں ہیں اور

آسمان کیا سوچ رہا ہے (۲) خلاف امید کسی امر کے پیش آنے پر بولتے

ہیں۔

کامآچرمی سراہیم و ظہورہ (صفت) ماہر می سراہند (ف) مثل) بے تکلی تون کے متعلق کہا جاتا

ہے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں اور تم کیا کہہ رہے ہو۔

کامآازیں لیاہ صیغف (صفت) میں لگاؤ (ف) مثل) مجھے اس کمزور گھاس سے

یہ توقع نہ تھی۔ جو کمزور شخص اپنی بہت سے زیادہ کام کرے تو اس وقت

کہتے ہیں۔

کامآچرازیں قصہ کہ گاؤ آمد و خور رفت (ف) مثل) (تجزیہ) ہمیں اس سے کیسا

غرض کہہ لیں آیا اور گدھا چلا گیا۔ کسی کے آنے جانے پر بے پروائی کا اظہار

ماپا (۵-۱- مذ) [۱] بیانئش کرنے والا۔ رقبہ بندی کرنے والا (۲) [صفت] جس کی پیمائش کر لی گئی ہو۔ جس کی رقبہ بندی کر دی گئی ہو۔
 ماپا شور یا اور پٹی پوٹیاں [ایش] (۱) خشت۔ کجخوسی (۲) کفایت شعاری (۳) کھٹنے پینے کی چیزوں کی کمی۔

ماپنا۔ رماپ۔ نا [۵-۱- معص] پیمائش کرنا۔ جانچنا۔ اندازہ کرنا۔ ناپنا۔
مانت۔ [ت-۱- مت] مال۔ مادہ۔

مانت۔ [ت-۱- مت] ہار۔ شکست۔ زک۔ ہزیمت۔ شطرح یا بیت بازی کی ہار۔
مانت دینا۔ (۱- محاورہ) (۱) شکست دینا۔ ہرانا۔ زک دینا (۲) نیچا دکھانا۔ مغلوب کرنا۔ شرمندہ کرنا۔ شرمندہ کرنا۔ مجمل کرنا۔ بازی لے جانا (۳) شطرح یا بیت بازی میں فریق مقابل پر غالب آنا۔

مانت کرنا۔ (۱- محاورہ) شکست دینا۔ ہرانا۔ بازی لے جانا (۲) مغلوب کرنا۔ نیچا دکھانا۔ شرمندہ کرنا۔ (۳) شطرح یا بازی یا بیت بازی میں تریف کو ہرا دینا (۴) فریق سے جانا۔ کسی کام میں بڑھ جانا۔

مانت کھانا۔ (۱- محاورہ) بازی میں ہار جانا۔
مانت ہو جانا۔ مات ہو جانا۔ (۱- محاورہ) شکست کھا جانا۔ ہارنا (۲) شرمندہ ہونا۔ ماند ہو جانا۔

ماننا۔ (۵-۱- معص) [۱] والدہ۔ ماں (۲) بڑی عورت کو عورت سے ماننا کہتے ہیں۔ (۳) چھپک۔ سینٹلا (۴) [صفت] مدہوش۔ مست۔

مانتا پتا۔ (۵-۱- مذ) [۱] ماں باپ۔ والدین (۲) بزرگ۔ آقا۔ مانک۔ مائی باپ۔
 مانتا پوجنا۔ (۱- محاورہ) سینٹلا کی پوجا کرنا۔

مانتا سینٹلا کے دن۔ (۵-۱- مذ) وہ زمانہ جب چھپک کا بہت زور ہوتا ہے۔
 مانتا نکلتا۔ (۱- محاورہ) چھپک نکلتا۔ سینٹلا ابھرتا۔

مانتر۔ (ما۔ ترم) [س-۱- معص] (۱) اکیلا۔ تنہا۔ فقط۔ تھوڑا سا۔ کسی قدر (۲) اندازہ۔
مانترا۔ (مانت۔ دا) [س-۱- معص] (۱) ناپ۔ پیمائش (۲) کسی دوا کی مقدار یا اندازہ۔

(۳) ہندی حرفوں کے اعراب (۴) مال۔ دھن۔ دولت (۵) ناگری حروف کو حصہ یا جز (۶) وہ وقت جو چھوٹی حرکت کے بولنے میں لگے (۷) شبثہ (۸) زیور۔ گہنا (۹) مادہ۔

مانترا لگانا۔ (۱- محاورہ) اعراب حروف علت کو حروف کے ساتھ ملا کر پڑھنا۔
مانتم۔ (ما۔ تم) [ع-۱- مذ] (۱) مصیبت۔ آفت۔ پتا (۲) سوگ (۳) رنج۔ غم۔ ملال۔

الم۔ اندوہ۔ کبرام (۴) مرنے کا غم۔ گریہ و زاری (۵) سینہ زنی (۶) غم حسین میں سینہ کوٹنا۔

مانتم پریمی۔ [ع-۱- ف-س-ت] تعزیت۔ پڑسا۔ درٹانے میت کے ساتھ ہمزدی۔
مانتم پریمی کرنا۔ (۱- محاورہ) تعزیت کرنا۔ پڑسا دینا۔ درٹانے میت سے ہمزدی اور غم خواری کرنا۔

مانتم پڑنا۔ (۱- محاورہ) کسی کی موت پر کبرام پھینا۔
مانتم خانہ پڑسا۔ کدوہ [ع-۱- مذ] غم کا گھر۔ سوگ کا گھر۔ وہ گھر جس میں کوئی مصیبت یا غم ہو گئی ہو۔

مانتم دار۔ [ع-۱- ف-صفت] ماتمی۔ سوگوار۔ سوگی۔
مانتم داری۔ [ع-۱- ف-صفت] غم۔ سوگ۔ رنج۔ الم۔ کبرام۔ گریہ و زاری۔
مانتم زدہ۔ [ع-۱- ف-صفت] سوگوار۔ ماتمی۔ غمگین۔ رنجور۔

جو خدا کی مرضی (۲) کلز جمعین آؤس۔ ماشا را خدا! آپ کے کیا کہنے سبحان اللہ! (۳) کسی خوبصورت چیز کو دیکھ کر کہتے ہیں جیسے فارسی میں چشم بڈور (۴) طنزاً بھی کہتے ہیں۔ ماشا۔ اللہ! مادہ باؤن کھانے لگے ہو۔

ما صدق۔ [ع-۱- مذ] جو کد درست ہو (۲) معصوم۔ معنی۔

ما فات۔ [ع-۱- مذ] جو فوت ہوا۔ جو گزر گیا۔

ما فوق۔ [ع-۱- مذ] جو فوقیت رکھتا ہو۔ جو اوپر ہو۔ اعلیٰ۔ اونچا۔ بلند۔ ممتاز۔ برتر۔ فائق بزرگ تر معظم۔

ما فوق الفطرت۔ [ع-۱- صفت] عقل و ذہن سے بالاتر۔ انتہائی حیرت انگیز۔

ما فی الضمیر۔ [ع-۱- مذ] دل کی بات۔ نیت۔ غرض۔ مطلب۔ مقصد۔ مدعا۔

ما فہما۔ [ع-۱- مذ] جو کچھ اس میں ہے۔

ما قبل۔ [ع-۱- صفت] پیلے۔ کاجیلے ہو۔

ما قبل الذکر۔ [ع-۱- مذ] جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہو۔ مذکورہ بالا۔

ما قل ودل۔ [ع-۱- مذ] تھوڑا جس کے معنی زیادہ ہوں۔

مالا کلام۔ [ع-۱- مذ] جس میں کسی شک اور اعتراض کی گنجائش نہ ہو۔

مالا لطاق۔ [ع-۱- مذ] طاقت سے بڑھ کر کام۔ وہ کام جو کسی کی طاقت اور قدرت سے باہر ہو۔

مالا نیل۔ [ع-۱- مذ] مہ جو سن نہ ہو سکے۔ مشکل مسئلہ جو ناقابل حل ہو۔ یعنی کھن۔ سخت۔ بہت دشوار۔

مالہ و ما علیہ۔ [ع-۱- مذ] جو اس کے لیے ہے اور جو کچھ اس پر ہے (۱) معاملہ کے نام) پیلو۔ (۲) برائی اور صلائی۔ نفع و نقصان۔

ما مضی۔ [ع-۱- صفت] جو گزر گیا۔ جو ہو چکا۔ گزشتہ۔

ما واجب۔ [ع-۱- مذ] جس کا کرنا واجب ہو۔

ما وراہ۔ [ع-۱- صفت] بجز۔ سوا۔ اس کے علاوہ۔ علاوہ بریں۔ بالاتر۔

ما تیکل۔ [ع-۱- صفت] جو گھٹن کا غائب ہو گیا ہو، جب کوئی چیز دوسری میں مل جو کہ اپنا وجود کھو بیٹھی ہو۔

ما یتاح۔ [ع-۱- مذ] وہ چیز جس کی ضرورت ہو۔ انسانی ضرورت کی چیزیں۔ ضروریات۔

ما یرید۔ [ع-۱- صفت] جو خدا چاہتا ہے (۲) خدا کی مرضی۔ شہیت خداوندی۔

ما یعرف۔ [ع-۱- صفت] جو معلوم ہو۔ (۲) مذ [کل (۳) کل شے مقبوضہ۔

ما یقرأ۔ [ع-۱- صفت] جو پڑھا جائے۔

ما ینطق عن الہوی۔ (آیت قرآنی) نہیں بولتے اپنی مرضی سے۔ سورہ نجم کی آیت جس میں پیغمبر صلیم کے متعلق فرمایا گیا ہے کہ وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے جو کچھ کہتے ہیں خدا کے حکم سے کہتے ہیں۔

ما یولون۔ [ع-۱- مذ] وہ شخص جسے اعظام (علت اُبنتہ) کی عادت ہو۔ پوسیا (۴) نامرد۔ زرتانا (۳) مشتبہ۔

ما پ (۵-۱- معص) [۱] پیمائش۔ ناپ۔ رقبہ بندی۔ جبرئ کشتی (۲) پیمانہ (۳) جارج۔

اندازہ۔ طول و عرض کا تخمینہ۔

ما پ قول۔ (۵-۱- معص) [۱] عرض و طول کی پیمائش (۲) جارج۔ پڑتال۔ رقبہ۔

ما پ کا پورا۔ (۵-۱- صفت) آدھی یا گھوٹا اور فوج اور پولیس کے قانون کے مطابق ان معمولوں میں لیا جائے۔

ماتی کرنا - (۱) معن جرب (۱) رنج کرنا - غم کرنا - (۲) سوگ کرنا - مرے کو گونا (۳) ہڑ
 خوانی کرنا - سیدہ کوئی کرنا - اما مجیش کے غم میں سیدہ کوٹنا -
ماتی - (ما - ت - جی) [ت - صفت] ماتم کرنے والا - سوگوار - ماتم سے تعلق رکھنے والا
 ماتمی باجر - (ا - ند) وہ باجر جو ماتم میں بجائے ہیں -
 ماتمی پوشاک (جامرہ - لباس) (ا - ند) نیلے یا سیاہ رنگ کا لباس جو رنج و غم
 کی حالت میں پہنا جاتا ہے -
ماتھا - (ما - تھ) (ا - ہ - ند) (۱) پیشانی - جبیں - ناصبہ - جڑبہ - سر کا اگلا حصہ -
 (۲) ناؤ کا اگلا حصہ -
 ماتھا پیٹنا - (۱) محاورہ (۱) سر پیٹنا - ماتم کرنا (۲) پھٹانا - افسوس کرنا -
 ماتھا پر بین کرنا - (۱) محاورہ (۱) ظاہر داری کا سلام کرنا - (۲) مغرمانا - دیر تک
 سمجھانا -
 ماتھا پیٹی - (۱) صفت) وہ عورت جس کا ماتھا چپٹا اور بد نما ہو -
 ماتھا ٹھکننا - (۱) محاورہ (۱) کسی کام کی بد انجامی کے متعلق پہلے سے خبر ہو جانا -
 ماتھا ٹھکننا - (۱) محاورہ (۱) سجدہ کرنا - عبادت کرنا - خوشامد کرنا -
 ماتھا رگڑنا - (۱) محاورہ (۱) پیشانی گھسنا - عاجزی سے سجدے کرنا جبیرہ ساتی
 کرنا - (۲) خوشامد کرنا - نہایت عاجزی کرنا -
 ماتھا کوٹنا - (۱) محاورہ (۱) سر پیٹنا (۲) افسوس کرنا -
 ماتھا گوندا - (۱) محاورہ) دائم الجس قیدی یا غلام کی پیشانی پر علامت بنانا -
 ماتھا مارنا - (۱) محاورہ) - سر مارنا - مغز بوجی کرنا - سر کھپانا -
 ماتھے تینا - آفت آنا - مصیبت آنا - کسی کے سر جانا -
 ماتھے پر آفتاں چھنا - (۱) محاورہ) پیشانی پر ستارے جمانا عورتیں جو صورتی
 کے لیے ایسا کرتی ہیں -
 ماتھے پر رافت چھیننا - (۱) محاورہ) خیر ہو جانا - آزاد ہو جانا -
 ماتھے پر بل پڑنا - (۱) محاورہ) نا ملاص ہونا - غصے ہونا - جس پر جیس ہونا -
 ماتھے پر سینہ ہونا - (۱) محاورہ) تحلیف، غم یا شرمندگی کی وجہ سے پیشانی
 پر سینہ آ جانا -
 ماتھے پر جگہ ہونا - (۱) محاورہ) کسی امر کا کسی پر منحہ ہونا -
 ماتھے پر شکن ہونا - (۱) محاورہ) پیشانی پر بل چرنا - رنج یا ناگواری سے پیشانی
 پر بل بڑ جانا -
 ماتھے پر گولی لگنا - (۱) محاورہ) کسی بات کے ہونے سے پہلے اس کی بڑی
 علامتیں نظر آنے لگنا -
 ماتھے جانا - (۱) محاورہ) (۱) ذہر بڑنا - سر لگنا - تھینا (۲) نقصان ہونا -
 ماتھے چاند ٹھوڑی تارا - (۱) منسل) خوب صورتی کی تعریف یعنی ماتھا چاند
 سادوشن ہے - اور ٹھوڑی تارے کی طرح چمک رہی ہے -
 ماتھے کا گٹا - (۱) محاورہ) وہ نشان جو سوجھو کرتے کرتے پیشانی پر بڑ جاتا ہے -
 ماتھے مارنا - (۱) محاورہ) داپس کرنا - لوٹانا - پھیرنا - واپس کرنا
 ماتھے مرھنا - (۱) محاورہ) ذمے ڈالنا - زبردستی کوئی بات تھوپنا -
 ماتھے ہونا - (۱) محاورہ) فتنے ہونا -
 ماتھر (ما - تھر) (س - ا - ہ - ند) (۱) متھر کا رہنے والا - (۲) کاستھوں کی ایک نات
 (۳) متھرا کے برہمنوں کی ایک ذات -

ماتی (ما - تی) (ا - ہ - صفت) (۱) سرشار مست - منوالی - مدہوش - ممنور (۲) بالغ - نوجوان
 (۳) شاداب - شگفتہ - تیز ذہن (۴) کامل - پورا - بھر پور -
 ماتھ (ا - ہ - ہ - ند) (۱) مشکا - خم (۲) نیل کا خوش -
 ماتھ بگڑنا (۱) محاورہ) نیل کا مشکا (جو میں) خراب ہو جانا (۲) کتیا افزا اڑنا -
 ماتھ (ا - ہ - امٹ) (۱) بھٹی (۲) [ند] بڑا مشکا - خم - گول (۳) جھونپڑا (۴) خانقاہ
 (۵) ہندو فقیروں کی بھونپڑی (۶) مذہبی مدرسہ - پاٹ - خانہ -
 ماتھو (ما - ٹھو) (ا - ہ - صفت) (۱) مسخوہ آدمی - بیوقوف شخص - (۲) ایک قسم کا بندر -
 ماتی (ما - ٹی) (ا - ہ - صفت) (۱) مٹی - خاک - ڈھول - گرد - بخار (۲) زمین - دھرتی -
 ماتی پھانکنا (پھنکنا) (۱) محاورہ) جلنا - حسد کرنا - دشمنی کرنا - تیر کرنا -
 ماتی میں کرنا - (۱) محاورہ) خاک میں ملنا - بدن کا مٹی میں ملنا - دفن ہونا (۲) خواب
 ہو جانا - بناہ ہو جانا - بگڑ جانا -
 مائورہ - مائورہ (ما - ٹورہ - مائورہ - زہ) (ع - صفت) (۱) اثر قبول کیا ہوا (۲) جزا دیا گیا
 (۳) نقل کیا ہوا -
 ماجد (ما - جد) (ع - صفت) بزرگ - قابل احترام شخص - معزز -
 ماجدہ (ما - ج - دہ) (ع - صفت) قابل تعظیم عورت - مغفلہ - محترمہ - بزرگ رت
 ماجد کی تائینٹ -
 ماجو (ما - جو) (ا - ہ - ند) مازو ایک دوا کا نام -
 ماجو ج (ما - جو ج) (ع - ا - ہ - ند) ایک قوم جو حضرت یافث بن نوح کی اولاد سے
 ہے - تاتاری لوگ - یا جو ج ماجو -
 ماجور (ما - جو ر) (ع - صفت) اجر دیا گیا - ثواب دیا گیا - نیک بدلہ دیا گیا -
 ماجوم (ا - ہ - ٹ) (۱) مجون کا مخرب (۲) ایک مٹھائی جس میں بھگٹائی جاتی ہے -
 ماجھی (ما - جھی) (ا - ہ - ند) [ع - صفت] کشتی چلانے والا -
 ماجا (ما - جا) (ا - ہ - ند) (۱) اونچی اور بہت بڑی چار بائی (۲) وہ اونچی جگہ جہاں
 بیٹھ کر کھیت سے پرندوں کو اڑاتے ہیں - ٹانڈ - مچان -
 ماجا ٹور (ا - ہ - صفت) (۱) جوہر وقت چار بائی پر بڑا رہے - سست - کاہل (۲) راجپوت
 سپاہیوں کی ایک قسم جو جنگ میں مسرت پڑے رہتے تھے مگر وقت جنگ بڑی
 بہادری دکھاتے تھے - انہیں اکبر کے عہد میں احدی کہا جاتا تھا -
 ماچھی (ما - جھی) (ا - ہ - امٹ) [ع - صفت] (۱) مچھی - ماہی (۲) سقد - بہشتی -
 ماچی (ما - جھی) (ا - ہ - امٹ) (۱) چھوٹی چار بائی - پنگڑی (۲) وہ جالی دار تھیلہ جو
 گاڑی کے پیچھے اسباب سفر رکھنے کے لیے ہوتا ہے - (۳) لکڑی کا وہ
 آکر جو بل چلانے وقت بیلوں کے گلے میں ڈالتے ہیں -
 ماجھی (ما - جھی) (ع - صفت) نیست کرنے والا - مو کرنے والا - مٹانے والا -
 ماخذ (ما - خذ) (ع - ا - ہ - ند) (۱) وہ جگہ جہاں سے کوئی چیز نکلے - اخذ کرنے یا لینے
 کی جگہ - منبع - نکاس (۲) اصل - بنیاد (۳) مادہ - مبداء -
 ماخوذ (ما - خوذ) (ع - صفت) (۱) گرفتار - پکڑا ہوا - پھنسا ہوا - باز پرس میں مبتلا
 (۲) اخذ کیا ہوا - جمع - ماخوذین -
 ماخوذ کرنا (۱) محاورہ) (۱) پکڑنا - گرفتار کرنا (۲) پھنسانا - پھینکانا (۳) الزام لگانا -
 ماخولیا (ما - خول - یا) (یو - ا - ہ - ند) دیکھے مائولیا -
 ماورخ (ما - ورخ) (ع - صفت) تعریف کرنے والا -
 ماور (ماور) (ت - ا - ہ - صفت) والدہ - ماں - اماں - ماتا - جمع : مادراں

مادر بہ خطا (ف - ا - مٹ) حرامی - ولد الزنا -
مادر پدر آزاد (ف - صفت) مکمل آزاد - بہر قسم کی مذہبی یا اخلاقی پابندیوں سے آزاد -

مادر پدر ہونا - مادر خواہر کرنا (ا - محاورہ) گالی گلوچ کرنا - ایک دوسرے کو گالیاں دینا -

مادر چودہ (بازاری گالی) جس نے اپنی مال کے ساتھ زنا کیا ہو - شریر - حرام زادہ بد ذات -

مادر خواہی کرنا - (ا - محاورہ) مال کی گالی دینا -

مادر رضاعی - (ف - ع - ا - مٹ) دودھ پلانے والی -

مادر زیاد - پیدا ہونے - جنم کا - جیسے مادر زارا ندھا -

مادر علانی - (ف - ا - مٹ) سونیلی ماں -

مادر لگیتی - (ف - ا - مٹ) زمین - دھرتی - ماما -

مادر لڑہ - (ا - ذ - ری) (ف - صفت) ماں سے متعلق -

مادری (ما - ذ - ری) (ف - صفت) (ا) ماں کی طرف منسوب (۲) پیدائشی - فطری -

مادری زبان - (ف - ا - مٹ) ماں کی زبان - گھر کی زبان - ذاتی زبان اپنی بولی

مادہ (ما - دہ) (ف - ا - مٹ) عورت ذات - ترکی نقیض - استری -

مادہ (ما - دہ) (ع - ا - مذ) (۱) ہر چیز کی اصل - جس سے کوئی شے بنائی جائے

(۲) جوہر - قابلیت - صلاحیت (۳) ماخذ - اصل - جڑ - منبع (۴) کسی

بات کے سمجھنے کی قوت - عقلی - ادراک - سمجھ (۵) جسم - وجود -

(۶) مواد - پیپ - جمع مواد -

مادہ پرست - (ع - ف - صفت) مادہ کو سب کچھ سمجھنے والا - خدا کا منکر - دہریہ -

مادہ ہونا (۱) ایقت یا استعداد ہونا (۲) کسی چیز کی اصلیت (جڑ) ہونا -

مادہ تولید - وہ رفیق مادہ جو مرد کے عضو تناسل سے خارج ہوتا ہے - اور

استقرار حاصل کا باعث بنتا ہے (انگ) (Semen)

مادری (ما - ذ - ری) (ع - صفت) ذاتی - اصلی - قدرتی - طبعی -

مادریات (ما - ذ - ریات) (ف - ا - مٹ) مادیت کی جمع - مادی چیزیں - مخلوقات -

مادیان (ما - ذ - یان) (ف - ا - مٹ) یہ لفظ واحد ہے - گھوڑی مادہ اسپ -

مادریت (ما - ذ - ریت) (ع - ا - مٹ) (۱) ہرسانیت - جمعیت - مادہ ہونا - جمع - مادیات

مادریں (ف - ا - مٹ) ہر حیوان اور پرند کی مادہ -

مادرن (Modern) (انگ) (صفت) دیکھیے موڈرن -

ماڈل (Model) (ما - ذ - ل) (انگ) (۱) نمونہ - نقشہ (۲) ناپ - پیمانہ

(۳) سانچہ - قالب (۴) طور طریق -

ماڈرن (ما - ذ - رن) (ع - ا - مذ) بنا رہا وہ جگہ جہاں سے اذان دی جائے جہاں سے

کسی چیز کا اعلان یا منادی کی جائے -

مادرون (ما - ذ - رن) (ع - صفت) اجازت دیا گیا -

مار (ف - ا - مذ) سانپ - ناگ - افعی - جمع - ماراں - مارہا -

مار آستین (ف - صفت) بیٹھی چھری - بغلی گھونسہ - دوست نمادشن -

مار بربرج (ف - مٹ) خزانے پر سانپ - اس کی بوسے کے متعلق کہا جاتا ہے کہ جس

کے پاس دولت تو ہو مگر نہ خود اپنی ذات پر خرچ کرے اور نہ کسی کو دے -

مار پوچ - پروم - سیاہ رنگ کا گچھا جو بھنڈے کے سر پر لگا دیتے ہیں (۲)
سانپ کی سی لہر (۳) کئی سانپوں کے مانند باہم پیچیدہ تصویر (۴) پیچ دار راستہ - ٹیڑھا راستہ -

مارخور - (ف - ا - مذ) ایک قسم کا جنگلی بکرا -

مار دوزبان - (ف - صفت) کتا جتا منافق آدمی کے لیے کہتے ہیں -

مار زلف - (ف - صفت) زلف کا سانپ - معشوق کی زلف کو سیاہی اور پیچ خم

کی دگر سے سانپ سے استعارہ کرتے ہیں -

مار صغاک - (ف - ا - مذ) وہ سانپ جو بادشاہ صغاک کے کاندھوں پر پیدا

ہو گئے تھے - اور آدمی کا بھیجا کھاتے تھے -

مار گزیرہ - (ف - صفت) وہ جسے سانپ نے کاٹ کھا یا ہو -

مار گزیدہ ازہر سماں بی ترسد - (ف - مٹ) سانپ کا ڈسا ہوا رسی سے ڈرتا

ہے جس چیز سے نقصان پہنچا ہو اس کے ہم شکل سے بھی خوف آتا ہے -

مار گیر - (ف - ا - مذ) (۱) سانپ بچھڑنے والا (پیدا) (۲) مکار - دغا باز - جیلہ ساز -

مار گیسو - (ف - صفت) معشوق کی پیچ دار زلف - کاکل - معشوق کی لٹ -

مار ماہی - ایک قسم کی بھلی - بام چھلی -

مار مہرہ - (ف - ا - مذ) وہ مہرہ جو سانپ کے سر سے نکلا جاتا ہے (۲) زہر کا تریاق

مار (ا - مٹ) (۱) چوٹ - ضرب - مار پیٹ - زرد کوکب (۲) دھکا - حد مرہ - آسیب

(۳) ڈکھ - درد - تکلیف - عذاب - رنج - کوفت (۴) تنگی - مفلسی -

(۵) ٹوٹا - خسارہ - گھاٹا - حق تلفی - خیانت (۶) ٹوٹ - غارت (۷) سزا

(۸) غضب الہی - وبال (۹) کثرت - بہتات - افراط (۱۰) طلاج و فعیہ

مصلح - بدرقہ (۱۱) لالچ - طبع (۱۲) فریب - دغا - دھوکا - چال (۱۳) توڑ

زور (۱۴) سعی - کوشش (۱۵) کاروبار - کام کاج (۱۶) خرچ - صرفت -

(۱۷) لعنت - پشکار - مٹھنکار - بد دغا - (۱۸) دھکی - ڈراوا (۱۹) ہلاک

کرنے والا (۲۰) پوتی مٹی (۲۱) جگنی مٹی جس میں دھان پیدا ہوتا ہے -

(۲۲) مارنا کا امر -

مار اتارنا - (ا - محاورہ) (۱) مار ڈالنا - ہلاک کرنا (۲) مرنے کے قریب کر دینا -

(۳) برباد کرنا تباہ کرنا - (۴) فریفتہ کرنا - عاشق بنا لینا - موہ لینا -

مار بھگانا - (ا - محاورہ) مار کر بھگانا - شکست دینا - ہرا دینا -

مار بیٹھنا - (ا - محاورہ) (۱) ٹھونک دینا - پیٹ دینا (۲) غضب کر لینا - مار لینا -

مار پٹائی - مار پیٹ (ا - مٹ) مار کٹائی - زرد کوکب - لڑائی بھگڑا -

مار پٹنا - (ا - محاورہ) مارا جانا - زرد کوکب ہونا -

مار پیٹ کے - (ا - مقولہ) بڑی مشکل سے - وقت سے -

مار پیٹ کیے جانا - (ا - محاورہ) (۱) متواتر مارے جانا (۲) (کلیتاً) کوشش

کیے جانا - کوشش میں کسر نہ اٹھا رکھنا -

مار پیچھے ستوار - (ا - مٹ) لڑائی کے بعد صلح - رسوائی کے بعد نیک نامی -

ذلت کے بعد عزت -

مار چلنا - (ا - محاورہ) مار شروع کر دینا -

مار دیوانا - (ا - محاورہ) پھوٹا - زرد کوکب کرنا -

مار دھارڑ - (ا - مٹ) (۱) مار پیٹ - زرد کوکب - (۲) لڑائی - جنگ و جدل - (۳) ڈانٹ ڈپٹ -

مار مار کرنا - (۱- محاورہ) (۱) بیٹھے کا حکم دینا (۲) جنگ جمل پر آگ لانا (۳) سرزنش کرنا
 قاتل کرنا (۴) نہایت کوشش کرنا - خوب جدوجہد کرنا - (۵) بہت محنت
 و مشقت کرنا (۶) نہایت جلدی کرنا (۷) مار پیٹ کرنا (۸) شور
 مچل کرنا -

مار مارنا - (۱- محاورہ) بیٹھنا - زد و کوب کرنا -
 مار مار ہونا - (۱- محاورہ) (۱) مار مار کرنا (۲) بڑا تقاضا یا تاکید ہونا -
 مار مرنا - (۱- محاورہ) دوسرے کو قتل کر کے اپنے آپ کو ہلاک کرنا - خودکشی کرنا
 مار میں جانا - (۱- محاورہ) (۱) ڈوبنا - ضائع ہونا - جانا ہونا (۲) ٹٹ جانا -
 غارت جانا (۳) بیٹھے کھاتے میں پڑنا - وصول نہ ہونا -

مار پھگانا - (۱- محاورہ) مار بھگانا - شکست دینا -
 مارا (ما - ما) [۵- صفت] (۱) کشتہ - مقتول (۲) ڈسا ہوا گزیدہ (۳) تباہ شدہ -
 (۴) دکھی - ستا ہوا - مارا ہوا - مڑہ -

مارا جانا - (۱- محاورہ) (۱) قتل ہونا ہلاک ہونا (۲) ضائع ہونا - تلف ہونا (۳) تباہ ہونا
 برباد ہونا (۴) غائب ہونا (۵) ذلیل ہونا (۶) ٹٹ جانا - جوڑی ہو جانا - (۷) بلا
 میں پھینسا - گرفتار ہونا (۸) شامت آنا (۹) فوج کا کٹ جانا -
 مار دھاری - (ق) مار پیٹ - جھگڑا -

مارا مار - (۱) نشت (۱) کثرت - افراط - بہتات - زیادتی - افزونی (۲) کوشش -
 سعی - دؤر دھوپ (۳) مار پیٹ - مار دھاڑ (۴) ہل چل - افزائش - بھاگڑ
 (۵) محنت - جان فشانی - مشقت (۶) کش مکش - کشاکش - دھکا پیل (۷)
 ظلم و ستم ہو کسی پر ہر طرف سے ہو (۸) بھیم - لگاتار -
 مارا مار کرنا - (۱- محاورہ) (۱) دؤر دھوپ کرنا - بہت کوشش کرنا (۲) جلدی
 کرنا - شتانی کرنا -

مارا مارا پھرنا - (۱- محاورہ) (۱) آوارہ پھرنا - خراب و خستہ پھرنا - در بدر پھرنا
 (۲) ٹھوکرین کھاتے پھرنا - بھٹکتے پھرنا -
 مارا ہوا - (۱- صفت) (۱) قتل کیا ہوا (۲) تباہ کیا ہوا - برباد کیا ہوا - اچاڑا ہوا
 (۳) کشتہ کیا ہوا -

ماربل (Marble) (ماربل) (انگ - ۱- مذ) [سنگ مرمر - ایک قسم کا سفید

ماڑیاڑی (۱- صفت) جھلک - ہلاک کرنے والا -
 ماڑتا (ماڑ - تا) (۱- مذ) (۱- مذ) مارنے والا - ضرب لگانے والا -

مارتا پیر - (۱- مذ) (۱) زبردست آدمی - جو دوسرے پر قابو پا لے -
 مارتے خال - (۱- مذ) (۱) زبردست - زور آور (۲) بہادر (۳) ظالم -
 مارتے کا ہاتھ پکڑا جاتا ہے - کہتے کا منہ نہیں پکڑا جاتا (۱- مذ) (۱) بد زبان کی
 بدزبانی نہیں روکی جاسکتی - مارتے داسے کا ہاتھ تو پکڑا جاسکتا ہے - مگر کسی
 کی زبان کو نہیں روکا جاسکتا -

مارتے کے پیچھے بھاگتے کے آکاری - (۱- مذ) (۱) متعلق کہتے ہیں -
 مارتے مارتے بھور کر دینا - گھمڑی بنا دینا - (۱- محاورہ) بہت مارنا - بڑی
 طرح بیٹھنا - نہایت سخت مارنا -

مارتول - (ماڑ - تول) (۱- مذ) [مٹھوڑا - موگر - ٹھوکے کا آلہ -
 مارٹ - (Mart) (انگ - ۱- مذ) [نیلام گھر (۲) منڈی - تجارتی مرکز -

ماروینا - (۱- محاورہ) (۱) قتل کر دینا - ہلاک کر دینا (۲) مار پیٹ کرنا (۳) شکست
 دینا - ہرا دینا (۴) دست درازی کر بیٹھنا -

مار ڈالنا - (۱- محاورہ) (۱) قتل کر دینا - ہلاک کر دینا (۲) تباہ کرنا - برباد کرنا -
 عاشق بنا لینا - فریفتہ کر لینا - موہ لینا (۳) بیابا کر دینا - پھڑکا دینا
 (۵) ہنساتے ہنساتے ٹوٹا دینا -

مار فریح کرنا - (ق) - (۱- محاورہ) [کام تمام کرنا - میتانہ چھوڑنا - قتل غارت
 کرنا - مار ڈالنا -

مار رکھنا - (۱- محاورہ) (۱) کام تمام کرنا - بچ کر نہ جانے دینا - مڑے کے برابر
 کر دینا - (۲) فریفتہ کر لینا - عاشق بنا لینا (۳) تباہ کر دینا - برباد کر دینا -
 (۴) ناجائز طور پر قبضہ کر لینا - چتیا لینا -

مار رہنا - (۱- محاورہ) زیادتی رہنا - افزونی رہنا -
 مارے سے بھوت بھاگتا ہے - مار کے آگے بھوت بھاگتا ہے - (۱) [مثل]
 مار کے آگے سب سرکشی (دور شرارت دور ہوجاتی ہے - مار سے ہی شرمیہ
 درست ہوتے ہیں -

مار کٹائی - مار کٹیا - (۱) محبت - مار پیٹ - مار دھاڑ - زد و کوب -
 مار کر پٹا کر دینا - (۱- محاورہ) بہت مارنا - نہایت زد و کوب کرنا -
 مار کھا جانا - (۱- محاورہ) دھوکے میں آ جانا - فریب میں آ جانا -
 مار کھانا - (۱- محاورہ) (۱) پٹنا - سزا پانا - ضرب کھانا (۲) ہار جانا - شکست کھانا
 (۳) فریب یا دغا بازی سے کمانا -

مار کھانے کی باہیں - (۱- محاورہ) سزا مانے کا کام -
 مار کھانے کی نشانی - (۱- صفت) کم زور کے متقی ہیں استعمال ہوتا ہے -

مار کھلوانا - (۱- محاورہ) پٹوانا - سزا دلوانا -
 مار کے - (۱) تابع فعل (۱) پیٹ کر - زد و کوب کر کے (۲) بہت - بے حد -
 کثرت سے -

مار کے آؤ بنا دینا - (۱- محاورہ) اتنا مارنا کہ بدن پر نشان پڑ جائیں - بہت
 زیادہ مارنا -
 مار کے پچھا دینا - مار کے لٹا دینا - (۱- محاورہ) بہت مارنا - بے حد
 زد و کوب کرنا -

مار گتیاں تیری آس - (۱) [مثل] نوکر مالک کو یا بیوی خاوند کو کہتی ہے
 کہ جتنا چاہے مارے - میں تو تیرے بھروسے ہر ہوں -

مار لانا - (۱- محاورہ) (۱) شکار کرنا - مار کر لے آنا (۲) غضب کر کے لینا - دھوکے
 سے حاصل کرنا - چڑا لینا - ٹوٹ کھسوٹ کر لانا -

مار لینا - (۱- محاورہ) (۱) دبا لینا - غضب کر لینا (۲) لوٹ لینا - تباہ کر دینا
 (۳) نہیں کرنا - ناجائز طور سے لے لینا (۴) پیٹ لینا - تھپڑ لگانا - (۵)
 جیت لینا - فتح کر لینا - مغلوب کر لینا (۶) قابو کر لینا - مطیع کر لینا -

مار مار - (۱) محبت - ہنکارتے جانے کا شور -

مار مار دھول اڑا دینا - (۱- محاورہ) (۱) بہت مارنا (۲) مار کر - دبا کر - ناچار
 مار مار کر کے - (۱) تابع فعل (جلدی کر کے بہت کوشش کر کے - جسکل تمام
 مار مار کر کے) کے پھرس نکال دینا - (۱- محاورہ) بہت مارنا -
 مار مار کر کے بیدھا کرنا - (۱- محاورہ) بہت پیٹ کر درست کرنا -

(۳) حملہ کرنا (۴) سزا دینا - ڈانٹنا - (۵) لگانا - جڑنا (۶) وار کرنا - حملہ کرنا - قتل کرنا - ہلاک کرنا (۷) فنا کرنا - نیست و نابود کرنا - (۸) فسخ کرنا - جیتنا - تسویر کرنا - (۹) بازی لینا - کشتی جیتنا (۱۰) حریف کے مہرے کو پھینکا (۱۱) ہسکانا - رھکانا - بھگانا (۱۲) پھانسا (۱۳) مہین کرنا - خورد برد کرنا - اڑالینا (۱۴) پھینکا - دسے مارنا - (۱۵) پھیلانا (۱۶) قابو میں کرنا (۱۷) اشارہ کرنا (۱۸) پانی کے اندر جانا (غوطہ) -

مارننگ (Morning) (مارننگ) [انگ - امت] صبح - مارنے والے سے جلائے والا بڑا سے [۱- ش] اس موقع پر ہوتے ہیں جب دشمن بڑائی باہلاکت میں فوری کوشش کر چکے اور خدا کی مہربانی سے کوئی نقصان نہ پہنچے -

مارو - (ما - رو) [۵ - ا - مذ] (۱) مارنے والا - ہلاک کرنے والا (۲) مٹ - ایک راگنی (۳) مخالف سمتوں میں ملے ہوئے ہرن کے دوہینگ -

مارواڑ - (مار - واڑ) [۵ - ا - مذ] (۱) جو دھپور کا علاقہ (۲) ایک قسم کے گیت جو راجپوتانہ میں گائے جاتے ہیں - (۱) ایک قسم کا سفید کیڑو جس کے پڑوں پر سفید پتیاں ہوتی ہیں -

ماروت - (ما - روت) [ع - ا - مذ] ایک فرشتہ جو ہاروت فرشتہ کے ہمراہ دینا میں آیا تھا - مشہور ہے کہ دونوں ایک طوافت زمہ پر عاشق ہو گئے اور اُسے آسمان پر جانے کا علم بتا دیا - وہ زمہ تو تیار ہن گئی اور ان کو یہ سزا ملی کہ تا قیامت کنویں میں اُسٹے لٹکے ہوتے ہیں - یہ لوگوں کو جادو سکھا یا کرتے تھے -

ماروں گھنٹا پھوٹے آنکھ - [۱- ش] بے عمل اور بے جوڑ بات -

مارمی - (ما - رمی) [۵ - ا - امت] مار -

مارمی پڑنا - (۱) محاورہ (۲) مار پڑنا - شامت آنا - جان پرینا - صدر پینیا -

مار سے (۱-۵) تابع فعل (۱) وجہ - سبب - خاطر - لیے - واسطے - کارن -

(۲) مارنا کا مضارع (۳) مارے ہوتے - مرکبات میں مستعمل ہے جیسے شامت مارے -

مارے آپ لگاؤ سے تاپ - (۱) ش [۱- ش] آپ کرے اور دوسرے کے سر لگاتے

مارے اور رونے نہ دے - (۱) ش [۱- ش] زبردست ظلم کرے اور فریاد بھی نہ سے -

مارے باندھے - (۱) تابع فعل (۲) زبردستی - مجبوری سے -

مارے باندھے کا سودا - (۱) مذ [۱- مذ] مجبوری کا معاملہ -

مارے جوتیوں کے سر پر ایک بال نہ رکھوں - (۱) محاورہ (۲) کسی پر بہت سختہ ظاہر کرنے کے لئے یہ کلمات بولتے ہیں -

مارے سیاہی نام سردار کا - کاٹے بڑھ نام تلوار کا - (۱) ش [۱- ش] کام کوئی کرے نام کسی کا ہو -

مارے سے پیدا یا اچھا - (۱) ش [۱- ش] دھکی سے کام نکال لینا چاہیے -

مارے مارے پھرنا - (۱) محاورہ (۲) بھٹکتے پھرنا - بیکار گھومنا -

مارے نہ چوہی نام فتح خاں - (۱) ش [۱- ش] ہفت میں بہادر مشہور ہو گئے -

مارے نہ کوئے دل ہی دل میں کھوئے - (۱) ش [۱- ش] چپکے چپکے دل کو تکلیف پہنچانا - اندری اندر دل دکھانا -

مارے ہنسی کے لوٹ جانا - (۱) محاورہ (۲) ہنسی کی شدت سے بے تاب ہو جانا

مارٹر - (Mortar) (۱) [انگ - امت] ادھکی ہاون (۲) ایک قسم کی چھوٹی توپ -

مارجین - (Margin) مار جین - [انگ - ا - مذ] حاشیہ - آخری حد (۳) زائد رقم جو کسی بیٹی پوری کرنے کو رکھی جاتے -

مارچ - (March) [انگ - ا - مذ] سنہ عیسوی کا تیسرا مہینہ - جو ۳۱ دن کا ہوتا ہے (۲) کوچ - روانگی (۳) باقاعدہ قدم اٹھانا - معین رفتار سے چلنا -

مارچ پاسٹ (March Past) [انگ - ا - مذ] فوج کی سلامی -

مارشل - (Marshal) (مار - شل) [انگ - ا - مذ] سپہ سالار - جنرل - سب سے اونچے درجے کا فوجی افسر -

مارشل - (Marshal) (مار - شل) [انگ - ا - صفت] (۱) جنگی - حربی - عسکری - فوجی - (۲) جنگ جو - بہادر -

مارشل لا (Martial Law) [انگ - ا - مذ] فوجی قانون - جنگی قانون -

مارفیا (Morphia) (مار - فیا) [انگ - ا - مذ] افیون کا ست -

مارک - (Mark) [انگ - ا - مذ] (۱) جرمنی کا ایک سکہ (۲) سونے چاندی کا پیمانہ -

مارک - (Mark) [انگ - ا - مذ] (۱) نشانی - نشانہ - علامت (۲) کوئی نشان جو خواندہ آدمی دستخط کی جگہ بنائے (۳) امتحان کے سوالات کے نمبر (۴) داغ - دھبہ (۵) معیار سے بلند -

مارک کرنا - (۱) محاورہ (۲) نشان لگانا - علامت بتانا - نقش کرنا (۳) نشان جو دھوٹا کپڑوں پر لگاتا ہے - (۴) نقشے پر کسی نشانی کو ظاہر کرنا -

مارکا - (مار - کا) [ا - ا - مذ] (۱) علامت - پیمانہ - نشانی (۲) وہ نشان جو کسی سلطنت کی طرف سے اس سلطنت کی علامت ظاہر کرے (۳) وہ علامت جو کوئی کہنی اپنے کارخانہ کی مصنوعات کے لیے مقرر کرے -

مارکر - (Marker) (مار - کر) [انگ - صفت] (۱) نشان لگانے والا - نشان کرنے والا (۲) گھوچی -

مارکسزم - (Marxism) (مار - کس - زم) [انگ - صفت] مشہور جرمن

اشتراکی کارل مارکس کا عقیدہ - اشتائیت - مارکسی نظریات -

مارکسی - (مار - کس - سی) [ا - ا - مذ] اشتائلی نظریات کو ماننے والا - کارل مارکس کے نظریات کا حامل -

مارکسیت - (مار - کس - سیت) [ا - ا - صفت] وہ اقتصادی - سیاسی اور سماجی نظریات جن کی بنا - کارل مارکس اور فریڈرک اینگلس نے ڈالی تھی -

مارکوئیس - (Marquis Quess) (مار - کو - ایس) [انگ - ا - مذ] نواب ڈیوک سے چھوٹا - ایک انگریزی خطاب

مارکیٹ - (Market) (مار - کیٹ) [انگ - ا - مذ] (۱) بازار منڈی - گڈری پیٹھ (۲) بازار گنے کا دن - اردو میں مارکیٹ کہتے ہیں -

مارگ - [س - ا - مذ] (۱) راستہ - راہ - باٹ - سبیل - طریق - پتھ (۲) طرح - طور - طریقہ - رنگ - ڈھنگ - (۳) زہر کا اتار - بندھ (۴) چارہ - علاج - تدریس - پابتنے -

مارنا - (مار - نا) [۵ - صفت] (۱) پھینکا - زدو کو ب کرنا (۲) ضرب لگانا چوٹ لگانا

ماضی بعید - (ع-ف-ت-ا-مٹ) وہ ماضی جس سے دُور کا گزرا ہوا زمانہ سمجھا جائے۔ جیسے آیا تھا۔

ماضی تثنائی - ماضی شمرطی - (ع-ف-ت-ا-مٹ) وہ ماضی جس میں تثنائی یا شرط پائی جاتے۔ جیسے کاش وہ آتا۔

ماضی قریب - (ع-ف-ت-ا-مٹ) وہ ماضی جس سے قریب کا گزرا ہوا زمانہ سمجھا جائے۔ جیسے عید آیا ہے۔

ماضی مطلق - (ع-ف-ت-ا-مٹ) وہ ماضی جس سے زمانہ کے قریب و بعید ہونے کا لحاظ نہ ہو۔ بلکہ مطلق گزرا ہوا زمانہ سمجھا جائے۔ جیسے باسط آیا۔

ماضی معطوفہ - (ع-ف-ت-ا-مٹ) وہ ماضی جس میں کسی بات یا کلام کا بار بار ہونا ظاہر ہو بذریعہ عطف۔

ماضیہ - (ما-ضی-یہ) [ع-صفت] گزرا ہوا۔ بیتا ہوا۔ گزشتہ۔ پیشتر کا۔

ماخ - (ف-ت-ا-مٹ) ایک قسم کا کبوتر۔

ماقوتی - (ما-قوتی) [ع-ا-مٹ] ایک قسم کا حلوا۔

ماکول - (ما-کول) [ع-صفت] (۱) کھایا ہوا۔ (۲) کھانے کی چیز۔ غذا۔ خوراک۔

ماکولات - (ما-کول-ات) [ع-ا-مٹ] ماکول کی جمع۔ کھانے کی چیزیں۔

ماکھن - (ما-کھن) [ا-مٹ] (۱) مکھن۔ مکا۔ کچا گھی (۲) روغن۔ تیل۔ (۳) گاڑھا پکا ہوا دودھ۔ ربڑی۔

ماکھو - (ما-کھو) [ا-مٹ] (۱) افواہ۔ شہرت۔ چرچا۔ (۲) شہد کی مکھی۔

ماکیاں - (ما-ک-یاں) [ف-ت-ا-مٹ] مرغی۔ لفظ جمع نہیں ہے مفرد ہے۔

ماگھ - (س-ا-مٹ) ہندی آٹھویں مہینے کا نام۔

ماگھ تنگی بیٹا کھھوکی - [ا-مٹ] ہمیشہ بغل سدا کنگال۔

مال - (ا-مٹ) (۱) وہ دُور جو چرخے میں نکلے کو متحرک کرتی ہے۔ (۲) مالہ۔ ہار۔ (۳) [پن] کوئیں کا موٹا رتہ۔ (۴) موٹی۔

مال - (Mall) [انگ-ا-مٹ] شہر کی بڑی سڑک۔ ٹھنڈی سڑک۔ خیابان۔

مال - (ع-ا-مٹ) [دھن-دولت-نقدی-مایہ-پونجی] (۲) اسباب۔ جائداد۔

سامان (۳) سوداگری کی چیزیں (۴) خاص ملکیت جس میں دوسرے کا تصرف نہ ہو۔ (۵) بیش قیمت چیز قیمت نئے (۶) گائے۔ بیہنس۔ موٹی۔

عرب میں اونٹ۔ ذبہ وغیرہ۔ (۷) مال گزاری۔ لگان۔ محصول۔

خراج۔ معاملہ (۸) بیدار۔ آمدنی۔ زراعت (۹) نفیس کھانا۔ قیمتی

طعام (۱۰) اصلی حقیقت۔ کائنات۔ بہتی۔ وجود۔ (۱۱) ڈاک کی فیصل

(۱۲) وہ چیز جس پر سچے پڑے۔ لائبریری کا انعام (۱۳) ایک ہی عدد کے

باہمی ضرب سے جو حاصل ہو۔ جیسے سولہ۔ چار کا مال ہے۔ (۱۴) نیل جو

فروخت ہوتا ہے (۱۵) دانے دار نیل کی کار جو ٹھوس پانی خشک ہو

جانے پر رہ جاتی ہے۔ (۱۶) خوبصورت اور نوسر نوج (۱۷) خوب صورت

لڑکا۔

مال اٹانا - [ا-مٹ] (۱) دوسرے کا مال۔ فضول خرچی کرنا (۲) لذیذ اور نفیس چیزیں

کھانا۔ (۳) روپیہ خرچ کرنا۔ مین کرنا۔ خجانت کرنا۔

مال باز یافتہ - (ع-ف-ت-ا-مٹ) وہ مال جو طرم (چور) سے برآمد ہوا ہو۔

مار سے ہول کے - (ا-ت-ب-ع-ف-ن-ع) خوف کی شدت سے۔ ڈر کے مارے۔

ماٹرا - (ما-ٹرا) [ہ-صفت] (۱) بودا۔ کم زور۔ کم طاقت۔ ناتوان (۲) ڈبلا پتلا۔ لاغر (۳) بوڑھا۔ ضعیف (۴) مغرب۔ اسکین (۵) مغس کنگال۔ تنگست

(۶) نکمٹا۔ خراب۔ کھوٹا۔ حقیر۔ ناچیز (۸) مکینہ۔ ادنیٰ۔ پیچ۔

ماٹری - (ما-ٹری) [ہ-صفت] (۱) ماٹرا کی تابش۔ کم زور۔ ناتوان۔ ضعیف۔ نیمہ (۲) [مٹ] کھٹ۔ (۳) اپار (۳) اوپر کی منزل۔ اٹاری۔

ماڑو - (ما-ڑو) [ف-ت-ا-مٹ] ماڑو ایک مشہور دوا۔

ماس - [س-ا-مٹ] (۱) مینہ (۲) جانہ۔ ماہ۔ (۳) گوشت۔

ماس سب کوئی کھاتا ہے۔ بڑی گلے میں کوئی نہیں باندھتا۔ [ا-مٹ] (۱) ماس

پتھر بھی چاہتے ہیں۔ بڑی کوئی بھی پسند نہیں کرتا۔

ماس کھاتے ماس بڑھے، گلے کھاتے بل ہو [ہ-مٹ] (۱) گوشت کھانے سے

ساگ کھاتے اوچھ بڑھے ہوتا کہاں سے ہو۔ بدن کا گوشت بڑھتا ہے گلے

کھانے سے طاقت آتی ہے۔ ساگ کھانے سے پیٹ بڑھتا ہے

مگر طاقت نہیں آتی۔

ماس لوجنا - (ا-مٹ) (۱) عمارت۔ (۲) لوجیاں کا ٹنا۔ بھنبھوڑنا۔ گوشت (تارنا)۔

ماسٹر - (Master) (ماس-ٹر) [انگ-ا-مٹ] مالک۔ مختار۔ تابعی۔

(۲) آقا۔ کارخانے کا مالک (۳) صاحب خانہ۔ ماہر فن۔ حاکم (۴)

اُستاد۔ معلم (۵) کاربگر (۶) بڑے لوگوں کے بچوں کو ملازم اسی نام

سے پکارتے ہیں۔

ماسٹر پیس (Masterpiece) [انگ-ا-مٹ] شاہکار۔ بہترین کاریگری

اعلیٰ صنعت۔

ماسکہ - (ما-س-ک) [ع-صفت] وہ قوت جو غذا کو معدے میں بھرنے کے لیے

روتی ہے۔

ماسی - (ہ-ا-مٹ) مال کی بہن۔ خالہ۔

ماش - (ہ-ا-مٹ) اُڑو۔ ایک لیس ڈرانج جس کی دال وغیرہ بناتے ہیں۔

ماش مارنا - (ا-مٹ) (۱) عمارت کے دالوں پر جاؤ تو ناکر کے کسی پر پھینکنا۔

ٹونا کرنا۔

ماشہ - (ما-شہ) [ف-ت-ا-مٹ] اٹھرتی کا وزن۔ تولہ کا بارہواں حصہ۔

ماشہ بھرا - (صفت) (۱) ایک ماشہ کی مقدار پورا اٹھرتی (۲) ذرا سا۔ تھوڑا سا

ماشہ تولہ ہونا۔ (ا-مٹ) ایک حالت پر قائم نہ رہنا۔

ماشو - (ما-شو) [ق-ا-مٹ] ایک قسم کا کپڑا۔

ماشی - (ما-شی) [ہ-صفت] ماش کے رنگ کا۔ سبز کا ہی۔ سیاہی مائل سبز۔

ماضی - (ما-ضی) [ع-صفت] (۱) گزشتہ۔ گزرا ہوا زمانہ (۲) [مٹ] مصدر سے

بنا ہوا وہ فعل جس سے گزشتہ زمانہ ثابت ہو۔

ماضی احتمالی - ماضی شکہ - (ع-ف-ت-ا-مٹ) وہ ماضی جس سے گزشتہ

زمانہ میں کسی فعل کے صادر ہونے کا احتمال یا شک ہو۔ مثلاً بکر آیا

ہوگا۔

ماضی استمراری - ماضی ناقص - (ع-ف-ت-ا-مٹ) وہ ماضی جس میں زمانہ

گزشتہ میں کسی فعل کا لگا تار واقع ہونا ظاہر ہو۔ جیسے کھاتا تھا یا

کھا رہا تھا۔

مال برآمد - (ع-ف-ا-ند) (۱) وہ مال جو دوسرو کو بھیجا جائے۔ اپنے ملک سے دوسرے ملک میں لے جا کر فروخت کرنے کی غرض (۲) چوری کا مال جو لزم سے واپس لیا گیا ہو۔

مال بچا بیٹھنا - (۱) محاورہ) غبن کرنا۔ خیانت کرنا۔
مال پر زکوٰۃ ہے - (۱) مثل) آمد پر ہی خرچ ہوتا ہے۔ آمدنی ہی پر زکوٰۃ منسخر ہے۔

مال پرست - (ع-ف-ص) مال کی پرستش کر کے والا۔ بندہ سیم و زر۔
مال بڑا پانا - (۱) محاورہ) بے محنت و مشقت دولت ملنا۔
مال تال - مال ٹال - (۱) اندر) روپیہ - مال و متاع۔

مال چیرنا - (۱) محاورہ) غبن کرنا۔ مال منعم کرنا۔ غصب کرنا۔
مال حرام - (۱) صفت) ناجائز مال۔ چوری کا مال۔ بری کمائی۔ صفت) مال۔
مال حرام ٹوڈ بچائے حرام رفت - (ف-م) مثل) ناجائز مال جس طرح آیا تھا اسی طرح چلا گیا جیسی بری کمائی تھی ویسی ہی بری جگہ خرچ ہوتی۔

مال حصہ داری - (ع-ف-ا-ص) (۱) مثل) (۱) ساجھے کی پونجی۔ شرکت کا مال (۲) قانو حصہ داری کا سرمایہ۔

مال خانہ - (ع-ف-ا-ند) (۱) گودام۔ ذخیرہ۔ بھنڈار۔ کوٹھی۔ جنس گھر۔
مال دار - (ع-ف-ص) دولت مند۔ دھنی۔ روپے والا۔ زبرد دار صاحب دار۔
مال داری - (ع-ف-ا-ص) (۱) مثل) دولت مندی۔ ترقی۔ ثروت۔

مال زادہ - (ع-ف-ا-ند) (۱) حرام کا پھر۔ پیشہ و صورت کا پھر۔ قریب سابق۔ بھڑوا
مال زادی - (ع-ف-ا-ص) (۱) مثل) (۱) خاصہ عورت۔ زندگی قہم۔ بازاری عورت
(دکھتی۔ ناگہ۔ دلالہ۔

مال سائر - (ع-ف-ا-ند) مال گزاری کے علاوہ چنگی۔ سڑک۔ مدرسہ وغیرہ کے محاصل۔

مال سستے پر ڈھالنا - (۱) محاورہ) سستا بیہنا۔
مال شراکت - (۱) محاورہ) حصہ داری کا مال۔ ساجھے پونجی۔
مال ضامن - (ع-ف-ا-ند) نقدی کی ضمانت دینے والا۔ روپیہ دار کرنے کا ذمہ دار۔

مال ضمانتی - (ع-ف-ا-ند) (۱) مثل) مال کی ضمانت۔
مال ضبطی - (ع-ف-ا-ند) (۱) مثل) سرکاری حکم سے قبضہ کیا ہوا مال۔ فرق کیا ہوا مال
مال طیب - (ع-ف-ا-ند) پاکیزہ مال۔ حلال کی کمائی۔
مال عرب - پیش عرب۔ (ت-م) مثل) اپنا مال اپنی ہی آنکھوں کے سامنے محفوظ رہتا ہے۔

مال غنیمت - (ع-ف-ا-ند) ٹوٹ کا مال۔ دشمن کا وہ مال جو لڑائی میں پاتا ہے
مال غیر منقولہ - (ع-ف-ا-ند) وہ مال جو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل نہ کیا جا سکے۔ جیسے زمین۔ مکان وغیرہ۔

مال فرود - (ع-ف-ا-ند) (۱) مال اتارنے کی جگہ۔ آڑھت۔ منڈی (۲) کوٹھی یا دوکان کا مال۔

مال کا بندوبست - (ع-ف-ا-ند) خرچ کا انتظام۔ بندوبست۔ پیداوار کا انصرام۔ مال گزاری کی توجیز۔
مال کا بندہ - (ع-ف-ا-ند) وہ مال جس کی بازاریں مانگ نہ ہو اور کم قیمت

پرمیچا جاتے۔
مال کا منہ کرتا ہے جان کا منہ نہیں کرتا - (۱) مثل) بخیل کی نسبت بولتے ہیں۔ یعنی مال کے مقابلہ میں جان کی پروا نہیں کرتا۔
مال کا نقصان جان کی خیر - (۱) محاورہ) اُس وقت بولتے ہیں جب مال کا نقصان ہو کر جان بچ جائے۔
مال کٹنا - (۱) مال چوری جانا۔ (۲) مال کا کثرت سے بچنا۔
مال کنگنی - (۱) مثل) ایک درخت جس کے بیج سے تیل نکالا جاتا ہے اور ادویات میں استعمال ہوتا ہے۔

مال کھینچنا - (۱) محاورہ) مال کمانا۔ مال حاصل کرنا
مال کیا ہے - (۱) مقولہ) دولت کی کوئی حقیقت نہیں۔ کیا شے ہے۔
مال گاڑی - (۱) مثل) وہ ریل گاڑی جس میں مال روانہ کیا جاتا ہے۔
مال گزار - (ع-ف-ا-ند) مال گزاری ادا کرنے والا۔
مال گزاری - (ع-ف-ا-ند) زمین کا لگان۔ زمین سسرکاری حصول (Land Revenue)

مال لا وارث - (ع-ف-ا-ند) وہ مال جس کا کوئی وارث اور دھوے وار نہ ہو۔
مال لئے سرکار کا مرزا کیلے بھاگ - (۱) مثل) دوسروں کے مال پر پیش آ کرانا۔
مال مارنا - (۱) محاورہ) غبن کرنا۔ ٹھکانا۔ فریبے لینا۔ چوری کرنا۔
مال مارو - (۱) صفت) غبن کرنے والا۔ خرد برد کرنے والا۔ خائن۔ غاصب۔
مال متاع - (ع-ف-ا-ند) دولت۔ اسباب۔
مال مجرم - (ع-ف-ا-ند) چور۔ مال طرم۔
مال محکمہ - (ع-ف-ا-ند) مال جو بندگی نڈی ناویا جہاز و دیگر لاد کر کے پائیں جہاز پر لدا ہوا مال
مال مست - (ع-ف-ا-ند) دولت کے نشہ میں سرشار۔ دولت پر مغرور۔ بیگنا
مال مسروقہ - (ع-ف-ا-ند) وہ مال جو چوری کیا جائے۔ چوری شدہ مال۔
مال مصفت - (ع-ف-ا-ند) محنت یا کوشش کے بغیر حاصل کیا ہوا مال۔
رین داموں بنا ہوا مال۔

مال مصفت دی بے رحم - (۱) مثل) اُس موقع پر بولتے ہیں جب دوسرے کا مال بے دریغ صرف کیا جائے۔
مال مقروقہ - (ع-ف-ا-ند) وہ مال جو فرق کیا گیا ہو۔ ضبط شدہ مال۔
مال منقولہ - (ع-ف-ا-ند) وہ مال یا جائیداد جو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جا سکے۔

مال نمودی - نصیب غازی۔ (ف-م) مثل) بخیل کا مال کسی کو لینے پر بولتے ہیں۔
مال والا ہارے - کال والا بچتے۔ (۱) مثل) آج کل پھر یوں ہیں وہی مقدمہ جیتتا ہے جس کا ویل بہت بولنے والا ہوتا ہے۔
مال وقف - (ع-ف-ا-ند) وہ مال جو خدا کے نام پر عام استعمال کے لیے چھوڑ دیا جائے مثلاً مسجد۔ مندر۔ سرائے وغیرہ۔

مال و متاع - (ع-ف-ا-ند) سامان اور روپیہ پیشہ دولت و اسباب وغیرہ۔
مالی - (۱) مثل) (۱) بچوں۔ موتیوں یا سونے کا بنا ہوا ہار۔ گجراتی ہنڈوؤں کی تسبیح (۲) ایک درخت کا نام (۳) قطار۔ ریلگ۔ (۵) وہ نشان جو تیغ فولادی اور تیشہ منڈی کے دونوں طرف ہوتا ہے۔
مالا پھیرنا۔ چھنا - (۱) محاورہ) تسبیح پڑھنا۔ سمرن چھنا۔

مال مال - (ما - لا - مال) (اُر - صف) (۱) دولت مند - تو نگر - خوش حال - زر دار -
 (۲) بہمت - کثرت - کثرت سے (۳) ہرزہ - معور - بھرا ہوا -
 مالا مال کرو دینا - امیر بنا دینا - دولت مند بنا دینا -
 مال لچو - (مال - پ - وا) (ہ - ا - ند) (۱) ایک قسم کی روشنی روٹی - ٹکٹلا -
 مالتی - (مال - تی) (ہ - ا - مٹ) (۱) ایک بوٹی کا نام - ایک قسم کی بیل (۲) ایک قسم کے
 پھول کا نام - جنیپلی (۳) جوان عورت (۴) دریا - چاندنی رات -
 مالتی بسنت - (ہ - ا - ند) ایک گنٹہ جو سونے کے درقوں اور موتیوں سے تیار
 کیا جاتا ہے -
 مالتی پھل - (ہ - ا - ند) جاتھل -
 مالتی مالا - (ہ - ا - مٹ) جنیپلی کے پھولوں کا ہار
 مالٹ - (Malt) (انگ - ا - ند) شراب سازی کے لیے تیار کیے ہوئے جو یا
 کوئی اور اناج - شعیر -
 مالٹا - (مال - ٹا) (اُر - ا - ند) ایک مشہور پھل جو ترش و شیریں ہوتا ہے -
 مالدا - (ہ - ا - ند) ایک مشہور اعلیٰ قسم کا آم -
 مالٹ سسری - (مال - سن - ری) (س - ا - مٹ) ایک رنگینی جو بعد دو پہر لگنی پوس
 میں گائی جاتی ہے - (۲) ایک خوشبودار پھولوں والا درخت -
 مالیش - (ما - لیش) (ف - ا - مٹ) (۱) ملنا - رگڑنا - (۲) متلی - جی کا متلانا -
 مالک - (ما - لک) (ع - ا - ند) (۱) صاحب - آقا - خداوند (۲) خدا سے تعالیٰ -
 رب - الہیوں - (۳) کسی چیز کی ملکیت رکھنے والا - (۴) ختم - شوہر - خاوند
 پتی (۵) قابض - منقرض - مختار - اختیار والا (۶) حاکم - افسر - سردار
 (۷) حضرت امام مالک رحمہ اللہ کے بہت بڑے امام - جن کے پیر و مالکی
 کہلاتے ہیں -
 مالک الملک - (ع - ا - ند) (۱) ملک کا مالک - بادشاہ - شہنشاہ (۲)
 خدا سے تعالیٰ -
 مالک حقیقی - (ع - ا - ند) اصلی مالک - خداوند تعالیٰ -
 مالک خود کا شمت - (ع - ف - ا - ند) اپنی زمین خود پونے والا مالک -
 مالک علی الاطلاق - (ع - ا - ند) مالک مطلق - ہر کام کا مالک و مختار یعنی
 خدا سے تعالیٰ -
 مالک کرنا - (۱) محاورہ) مالک بنانا - قبضہ دینا - مختار کرنا - اختیار دینا -
 مالک مکان - (ع - ف - ا - ند) - گھر والا - صاحب خانہ -
 مالک ہونا - (۱) محاورہ) (۱) وارث ہونا - جانی ہونا - قابض ہونا (۲) مختار ہونا
 مجاز ہونا - (۳) سرپرست ہونا - مرنے ہونا -
 مالکانہ - (ما - ل - کا - نہ) (ف - صف) (۱) مالک کے طور پر (۲) زمین داری کا
 حق - یعنی زمین جو کاشتکار سالانہ یا ماہانہ نقدی یا جنس کی صورت میں
 زمین دار کو ادا کرتا ہے -
 مالکانہ رسوم - (ف - ا - مٹ) ملکیت کا حق - حقیقت کا رویہ -
 مالکوس - (مال - کوس) (ہ - ا - ند) ایک راگ -
 مالکی (مالکیم) (ع - صف) (۱) حضرت امام مالک سے منسوب - حضرت
 امام مالک کا پیر و (۲) (ہ - ا - مٹ) ملکیت -
 مالن - (ما - فن) (ہ - ا - مٹ) مالی کی بیوی - پھول پینچنے والی -

مالوٹ - (ما - لوٹ) (ع - صف) عادی - خوگر - الفت کیا گیا - عزیز - پیارا -
 انیس -
 مالی - (ما - لی) (ہ - ا - ند) (۱) باغبان (۲) ایک قوم جو باغبانی اور کھیتی باڑی
 کرتی ہے -
 مالی - (ما - لی) (ف - صف) (۱) مال سے منسوب (۲) مال گزاری سے منسوب -
 مالی پیشکار - (ع - ف - ا - ند) واصل - بانی نويس - مال گزاری یا معاملہ کا جمع
 خرچ لکھنے والا - محرر مال گزاری -
 مالی کام - (ع - ا - ند) مال گزاری کے متعلق کام - زمین کے متعلق کام کا ج -
 مالیات - (ع - ا - نٹ) مالی امور خزانہ -
 مالیاتی - (ما - لی - ی - تی) مال کے متعلق - مالی معاملات سے متعلق (انگ) (Financial)
 مالیات - (ما - لی - ی - ت) (ف - ا - مٹ) (۱) پونجی - سرمایہ (۲) دھن - دولت
 (۳) قیمت - مول (۴) قدر و منزلت - وقعت (۵) تشنیں - قیمت
 جانچ -
 مالچو گیا - (ما - لی - ٹو - لی) (یا - ف - صف) سودا - خیال خام - خلی دماغ -
 ایک قسم کا جنون - پائل پن - خفقان - ماخولیا -
 مالیدہ - (ما - لی - دہ) (ف - صف) (۱) مل ہوا (۲) ایک قسم کا پشینے کا کپڑا جو ل
 کر لائیم کیا جاتا ہے - (۳) یلیدہ - چورما -
 مالیرہ - (ما - لی - ہر) (ف - ا - ند) (۱) مالیت (۲) مال گزاری - خراج - حکومت کی
 سالانہ آمدنی -
 ماش - (ہ - ا - صف) استطاعت - بساط - طاقت - بل - بوزند (ف - ا - مٹ)
 مال -
 ماما - (ف - ا - مٹ) (۱) ماں - والدہ (۲) بوٹھی عورت (۳) کھانا پکانے
 والی عورت - باورچن (۴) خادمہ - ملازمہ - وائی (۵) کینز - باندی
 لونڈی -
 ماما امیل - (ا - نٹ) لونڈی - باندی - کینز -
 ماما گیری - ماما گیری (۱) صف) (۱) کھانا پکانے کی ملازمت (۲) خدمتگاری کا پیشہ -
 ماماں - (ما - ماں) (ہ - ا - ند) ماں کا بھائی - ماموں -
 مامشا - (ما - متا) (ہ - ا - مٹ) (۱) الفت - محبت - پیار (۲) ماں کی
 محبت -
 مامتا ٹھنڈی رہنا - (۱) محاورہ) بچے کو دیکھ دیکھ کر ماں کا خوش رہنا -
 ماملہ - (ما - تم - لہ) (ق) معاملہ -
 مامن - (ما - من) (ع - ا - ند) پناہ گاہ - آرام کی جگہ - ٹھکانہ - جائے امن -
 مامو - ماموں - (ما - مو) (ما - موں) (ہ - ا - ند) ماں کا بھائی (پن) ماماں - مامو
 مامو (ماموں) کے کان میں اُٹیا (اُٹیاں) (۱) [شل] دوسروں کی دولت پر اترانا -
 (۲) بایاں) بھانجا ارنڈا ارنڈا پھرے -
 مامور - (ما - مور) (ع - صف) (۱) مقرر - متعین (۲) حکم کیا گیا - اجازت دیا گیا -
 مامور ہونا - (۱) محاورہ) کوئی کام سپرد ہونا - مقرر ہونا -
 مامول - (ع - صف) امید کیا گیا - وہ چیز جس کی امید ہو -
 مامولن - (ما - موں) (ع - صف) (۱) محفوظ - بے خوف (۲) ہارون رشید
 خلیفہ بغداد کے بیٹے کا نام -

ماں کا پیٹ کھار کا آوا۔ کوئی کالا کوئی گورا۔ (۱۔ مثل) جس طرح کھار کے آدے سے بڑے پکے پکے۔ سُرخ اور سیاہ نکلنے ہیں۔ اسی طرح ماں کے پیٹ سے بھی کالے اور گورے بچے پیدا ہوتے ہیں۔ یہ مثل وہاں ہل جاتی ہے جہاں ایک ہی ماں باپ کی اولاد بعض خوبصورت اور بعض بدصورت ہوتی ہے۔

ماں کا دودھ۔ (۱) شیر مادر (۲) نہایت مفید (۳) حلال۔ جائز۔
ماں کو نہ باپ کو جو بے گئی سوا آپ کو۔ (۱۔ مثل) ہرنیک و ہڈ مثل کا ذمہ ادا کرنے والا ہی ہوتا ہے۔

ماں کے پیٹ سے لے کر کوئی نہیں آتا۔ (۱۔ مثل) سیکھا سکھایا کوئی نہیں پیدا ہوتا۔ کام سکھنے ہی سے آتا ہے۔
ماں کے پیٹ سے لے کر نکلتا۔ (۱۔ مثل) سیکھا سکھایا پیدا ہونا۔ سیکھے بغیر حاصل کر لینا۔

ماں مارے اور ماں ہی پکارے۔ (۱۔ مثل) اپنا چاہے کتنی ہی تکلیف دے پھر بھی اپنا ہی کہلاتے گا۔ اپنیوں کی سمتی بھی بڑی نہیں لگتی۔

ماں مرے ماسی جتنے۔ (۱۔ مثل) ماں مرے گی تو خالہ ہاں لے گی۔ یعنی ماں اور خالہ کی محبت میں کوئی فرق نہیں۔
ماں نہ ماں کا چا یا جسی لوگ پرایا۔ (۱۔ مثل) اُس جگہ کی نسبت بولتے ہیں جہاں کوئی اپنا واقعہ نہ ہو۔

مان۔ (۱۔ س)۔ مذ و مث (۱) گھنڈ غرور۔ تکبر۔ نخوت۔ بکر (۲) عزت۔ قدر۔ منزلت (۳) خاطر، تواضع۔ آؤ بھگت۔

مان۔ (۱) ماننا کا امر۔ تسلیم کر۔ قبول کر (۲) (ت۔ ا۔ مذ) گھر۔ خسانہ (۳) اسباب خانہ۔

مان بھری۔ (۱۔ صف) مٹ (۱) ارمان بھری۔ آرزو مند۔ شائق۔ پڑا رمان (۲) مغرور۔ دماغ دار۔ مزاج دار۔ متکبر۔ گھنڈی۔

مان بان۔ مان تان۔ (۱۔ مذ) عزت۔ آبرو۔
مان تانا۔ (۱۔ محاورہ) تسلیم کر لینا۔ منظور کر لینا۔ (۲) راضی ہو جانا۔ اقرار کر لینا۔ (۳) اُستادی کا قائل ہو جانا۔ اعتراف کرنا۔

مان ڈھینٹا۔ (۱۔ محاورہ) غرور نہ رہنا۔ گھنڈ جاتا رہنا۔
مان رکھنا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) بات رکھنا۔ عزت رکھنا۔ خاطر مدارات کرنا۔ تعظیم و تکریم کرنا۔ (۲) تنہا پوری کرنا۔ مراد بر لانا (۳) بات ماننا۔ کہا ماننا۔
مان رہنا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) عزت رہنا۔ بات رہنا (۲) ماتحت رہنا۔ زیر سایہ رہنا۔ تابع رہنا۔

مان کا پان بہت ہوتا ہے۔ (۱۔ مثل) عزت کے ساتھ ٹھوڑا مان بھی بہت ہوتا ہے۔

مان کرنا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) تعظیم و تکریم کرنا۔ آؤ بھگت کرنا۔ (۲) سبک کرنا۔ غرور کرنا۔ گھنڈ کرنا۔ دماغ کرنا۔ مزاج کرنا۔ اتلانا۔

مان گمان۔ (۱۔ مذ) گھنڈ۔ غرور۔ تکبر۔ نخوت۔ ناز۔ تکنت۔ بکر۔

مان گون۔ (۱۔ ا۔ مذ) (۱) ناز و نیاز۔ ناز برداری (۲) عزت۔ قدر۔ منزلت۔
مان گون رکھنا۔ (۱۔ محاورہ) حسب خواہش مراد پوری کرنا۔ دل رکھنا۔ ناز برداری

مامی۔ (۱۔ ما۔ جی) (۱۔ امث) (۱) ماموں کی بیوی۔ ممانی (۲) ماں کی محبت۔ ماں کی سی طرف داری۔

مامی پینا۔ (۱۔ محاورہ) کسی کی طرف داری کی بات کہنا۔ طرف داری کرنا۔
مامیرال۔ (۱۔ ما۔ جی) (۱۔ ف) (۱۔ مذ) ایک جڑ بو گیٹیل اور ہلدی کے شہ بہوتی ہے۔ اور آنکھ کی دوا میں استعمال ہوتی ہے۔ میرا۔

ماں۔ (۱۔ ف) (۱۔ انث) (۱) ماں۔ والدہ۔ مانا۔
ماں ایللی باپ تیلی، بیٹا پوت (۱) شاخ زعفران۔ (۱۔ مثل) اُس وقت بولتے ہیں جب کوئی بیچ قوم یا کینہ سنی مارے یا کوئی ادا نے ماں باپ کی اولاد فخر خاندان ہو جائے۔

ماں باپ کالا ڈالا۔ (۱۔ مذ) وہ لڑکا جسے والدین نے بڑے ناز و نعم سے پالا ہو۔

ماں بہن کرنا۔ (۱۔ محاورہ) کسی کو ماں بہن کی گالی دینا۔
ماں بیٹیوں میں چھٹلا نہیں چھپتا۔ (۱۔ مثل) قریبی رشتہ داروں یا پاس رہنے والوں سے عیب نہیں چھپ سکتا۔

ماں بیٹیوں میں لڑائی ہوتی تو کون لے جانا بیر پڑا۔ (۱۔ مثل) آپس کی لڑائی کوئی لڑائی نہیں سمجھی جاتی۔

ماں پسنداری پوت چھلا، پوت پڑا بندے پور کا تھیللا۔ (۱۔ مثل) عزیز کا بیٹا فیشن کرے تو کھتے ہیں۔

ماں پسنداری بھلی۔ باب ہفت ہزاری نہ بھلا۔ (۱۔ مثل) ماں کی محبت باپ کی محبت سے زیادہ ہونے پر بولتے ہیں۔

ماں پر پوت پتا پر گھوڑا، بہت نہیں تو تھوڑا تھوڑا۔ (۱۔ مثل) اولاد اپنے ماں باپ پر ہوتی ہے۔

ماں تیلن، باب بھٹان، بیٹا دیکھو شاخ زعفران۔ (۱۔ مثل) کیکنے یعنی باز کے متعلق کہا جاتا ہے جب کوئی ادنیٰ بڑا ہو جائے تو کہتے ہیں۔
ماں ٹینی باپ کلنگ۔ بچے نکلے رنگ برنگ۔ (۱۔ مثل) دو ٹکی اور بدلوٹا

اولاد یا نالائق خاندان کے متعلق کہتے ہیں۔
ماں جایا (۱۔ مذ) برادر حقیقی۔ سگا بھائی۔

ماں جاتی۔ (۱۔ انث) ہمیشہ۔ لگی بہن۔

ماں جتا۔ (۱۔ مذ) بھائی جو ماں کے پیٹ سے ہو۔

ماں چاہے بیٹی کو، بیٹی چاہے مٹے ڈھنگ کو۔ (۱۔ مثل) ماں بیٹی سے جس قدر محبت کرتی ہے۔ بیٹی کو ماں سے نہیں ہوتی۔ شادی کے بعد وہ اپنے خاندان سے زیادہ محبت کرتی ہے۔

ماں چھوڑ موسیٰ سے ٹھٹھا۔ (۱۔ مثل) اُس وقت بولتے ہیں جب کوئی چھوٹا بدنیزری کرے۔

ماں جیل باب کو۔ (۱۔ مثل) کم اصل۔ دوغلہ۔
ماں سے سوا چاہے تو پچھا پچھا لگتی کہلاتے۔ (۱۔ مثل) ماں سے زیادہ پیار جتنا ضرور کسی خاص غرض سے ہوتا ہے۔

ماں سے لے کر کون آیا ہے۔ (۱۔ مثل) سب سکھاتے ہی سکتے ہیں۔

ماں فقیرنی پوت فتح خاں۔ (۱۔ مثل) کم اصل اور بیچ خاندان کے مغرور آدمی کی نسبت بولتے ہیں۔

کرنا۔ نازاٹھانا۔ عزت کرنا۔ بات رکھنا۔

مان گون والی۔ [۵-صف] آن بان والی۔ ناز واد والی عزت والی۔
مان مرچانا۔ [۱-مجاورہ] [۱۱-بجیر نہ رہنا۔ ٹھنڈے جاتا رہنا (۲) دل
مرچانا۔ انگ نہ رہنا (۳) عاجز ہو جانا۔

مان کشت۔ [۵-د ل ۲۰] [۱۱-مان گان (۲) ناز و نخرہ۔ ناز و نخرہ
(۳) چاؤ چیلہ۔ آؤ جاؤ (۴) آن تان (۵) ناز بے جا۔ نخرہ ناز بے
(۶) قدر و منزلت۔ قنعیم و تکبریم۔
مان نہ مان میں تیرا مہمان۔ [مثل] اس شخص کی نسبت بولتے ہیں جو
یہ بلائے کسی کے یہاں جائے۔ تمنا خواہ غیر پوچھے کسی کو صلاح
دے۔

مانا۔ (مان، نا) [ق-مص] سمانا کسی چیز میں آ جانا۔

مانا۔ (مان، نا) [ق-معنی]۔

مانا [۵] فرض کی۔ تسلیم کیا۔ منظور کیا [ف-صفت] مشابہ۔ مانند۔

مانشت۔ (مانشت) [ق] مانند۔

مانشت۔ [ق] مقصد۔ منت۔ مشابہت۔

مانتا۔ (مان، تا) [۵-ا] [۱۱-منت]۔ اپنے اوپر کسی بات کا فرض کر لینا۔

(۲) عقیدہ۔ اتفاق (۳) تبت۔ عہد (۴) تعظیم و تکریم۔

مانتا ہوں۔ [۵] قائل ہوں۔ تنہا رہی ہو تیار رہی اور بڑا لاکھ کو تسلیم

کرنا ہوں۔ کیا بات ہے۔

مانتھا۔ (مان، تھا) [ق-۱-۱] [۱۱-مانٹھا]۔

مانج۔ [۵-۱-۱] [مث] [۱۱-دلدل کی زمین (۲) نزلی بچھار (۲) [۵-ا] [۱۱-مانجنا

مانجنا مصدر سے مینہ امر۔

مانجنا۔ (مانج، نا) [۵-مص] [۱۱-صاف کرنا۔ برتن ملنا۔ اُجالنا صیقل

کرنا۔ چلا کرنا (۲) سونٹنا۔ بلی ہوئی ڈور یا ناگے کو نر کر پڑے سے

صاف کرنا۔

مانچھ۔ [۵-۱-۱] [مث] [۱۱-ایک لائٹی کا نام (۲) وسط۔ بیچ

مانچھا۔ (مان، چھا) [۵-۱-۱] [۱۱-کلف دار سالہ جو ڈور پر تیزی

اور چمک کے لیے پھرتے ہیں (۲) وہ ضیافت جو دو لہا کی طرف

سے شادی سے پہلے دی جاتی ہے (۳) زرد پوشاک جو دو لہا

دلہن کو مانچھے میں پہناتے ہیں۔ مایوں کا زرد جوڑا (۴) مانچھا

میٹھنا (۱) مجاورہ، دلہا دلہن کا شادی سے پہلے گونٹے میں

میٹھنا۔ مایوں میٹھنا (۵) درخت کا تنہ۔

مانجھن۔ (مان، جھن) [۵-۱-۱] [مث] [۱۱-ملاح کی بیوی (۲) کشتی چلانے

والی عورت۔

مانجھی۔ (مان، جھی) [۵-۱-۱] [مث] [۱۱-کشتی چلانے والا۔

مانجھی۔ [۵-۱-۱] [مث] [۱۱-گھڑ و سچی کی قسم کا آکر جو کھم کا رنگ پیکانے کے لیے

استعمال کرتے ہیں۔

مانڈ۔ [۵-۱-۱] [مث] [۱۱-گوریا ڈومیر۔ سوکھا ہوگا اور جسے اپلوں کی طرح

بلا تے ہیں (۲) [مث] [۱۱-غارت بٹھ کھو (۳) [صفت] جس کی

آب و تاب اور چمک جاتی رہے۔

مانڈ۔ [ف-مانی] [مص] مصدر ماندن سے ٹھکانا۔ رہنا [۱-مث] [قیام سکون۔

مانڈ پڑ جانا۔ پڑنا [۱-مجاورہ] [۱۱-آب و تاب نہ رہنا۔ مدہم پڑ جانا۔ پھیکا

پڑ جانا۔ رنگ کی شوخی جاتے رہنا۔

مانڈ و لو۔ [ف-مشت] [مص] رہتے سہتے کا طریقہ طرز زبرد و بائش۔

مانڈ کرنا۔ [۱-مجاورہ] [مص] مدہم کرنا۔ بے رونق کرنا۔

مانڈا۔ (مان، دا) [۵-صفت] [مص] بیمار۔ مریض۔ علیل۔ ناساز۔ روگی۔

مانڈا پڑنا۔ [۱-مجاورہ] [مص] عاجز ہونا۔ بیمار پڑنا۔

مانڈگی۔ (مانڈگی) [ف-۱-۱] [مث] [۱۱-تکان۔ ٹھکن۔ کسل۔ سستی۔

(۲) ایک قسم کا جنون (۳) بیماری۔ علت۔ ناسازی۔ روگ۔ آزار۔

مانڈنا۔ [ق-مص] [ق] قائم کرنا۔ لگانا۔ ارتکاب کرنا۔

مانڈہ۔ (مان، ڈہ) [ف-۱-۱] [صفت] [۱۱-تھکا ہوا۔ خستہ (۲) بچا ہوا۔ نیچے

رہا ہوا۔ جمع۔ مانڈگان۔

مانڈ سے ہونا۔ [ق-مص] [مص] تھکے ہونا۔ بیمار ہونا۔

مانڈ۔ [۵-۱-۱] [مث] [۱۱-اٹھے ہوئے چاولوں کا پانی۔ بیج۔ مانڈی۔ کانجی۔

(۲) کلف۔ ابار (۳) ایک قسم کا ماردار طبی کیفیت۔

مانڈا۔ (مان، ڈا) [۵-۱-۱] [مث] [۱۱-ایک قسم کی نہایت تیلی اور بڑی روٹی

جو میدے میں گھی ملا کر تونور میں پکائی جاتی ہے۔ پورسی۔ پچی (۳)

سفید جالا جو آنکھ کی تیلی پر آ جاتا ہے۔

مانڈل۔ (مان، ڈل) [۵-۱-۱] [مث] [۱۱-لوہے کا حلقہ جو پانی کے چرس کے منہ

پر لگا رہتا ہے۔

مانڈنا (مانڈ، نا) [۵-مص] [۱۱-مسلنا۔ کچلنا۔ پاؤں کے نیچے روندنا (۲)

گوندھنا۔ ساننا (۳) بنانا۔ چٹنا کرنا۔ ریچانا (۴) لکھنا۔ تحریر کرنا۔ رقم

کرنا۔ ٹھاننا۔ پکارا دہ کرنا۔ عزم۔ مانچھم کرنا۔

[ق-۱-۱] [مث] [۱۱-زانو۔ گھٹنا۔

مانڈھی۔ (مان، ڈھی) [۵-۱-۱] [مث] [۱۱-اٹھے ہوئے چاولوں کی بیج۔

کلف۔

مانس۔ (مان، نس) [۵-۱-۱] [مث] [۱۱-بشر۔ انسان۔ بشر۔

مانسون۔ (Monsoon) [انگ-۱-۱] [مث] [۱۱-موسی ہوا میں جو گرمیوں

میں بحر ہند سے جنوب مغرب کو مچتی ہیں اور بارش لاتی ہیں (۲) برسات کا موسم۔

مارع۔ (مارع، م) [۵-۱-۱] [مث] [۱۱-منع کرنے والا۔ روکنے والا۔ سدراہ (۲)

مانعت۔ روک۔ ٹھکانا۔

مارع آنا۔ (۱-مجاورہ) [مص] [۱۱-سداہ ہونا۔ منع کرنا۔ مزاحم ہونا۔ معترض ہونا۔

مارع عفو منوت۔ (۱-صفت) [۱۱-جراثیم کش ادویہ جو عمل جراحی (Surgery)

میں استعمال ہوتی ہیں (انگ) (Antiseptics)

مانعت۔ (مان، نعت) [۵-۱-۱] [مث] [۱۱-حائل۔ مزاحم۔ روکنے والا۔

مانگ۔ (مانگ، س) [۵-۱-۱] [مث] [۱۱-یا قوت۔ لعل (۲) گوہر۔ جوہر۔

مانگ بیٹکا۔ [۵-۱-۱] [مث] [۱۱-ایک قسم کا مٹھے پر لٹکانے کا جھاؤ زبرد۔

مانگ۔ [۵-۱-۱] [مث] [۱۱-سر کے بالوں کے بیچ کی لکیر (۲) منگیز۔ کونجی

لڑکی جس کی نسبت ہوگی ہو (۳) شوہر - خاوند (۴) طلب پیسے
ایسی چیزوں کی بڑی مانگ ہے (۵) انگلیا کی دونوں کٹوریوں
کے بیچ کی سلاخی -

مانگ اُجڑنا - (۱) محاورہ) بیوہ ہو جانا - راند ہو جانا -

مانگ آنا - (۱) محاورہ) مانگ جانا - خریداری ہونا -

مانگ بھرتا - (۱) محاورہ) مانگ میں موتی یا سیندور بھرتا - جو

اکثر شادی کے موقع پر پھرتے ہیں (۲) بیاہ دینا - شادی کر دینا -

مانگ بھری - (۱) منٹ (۱) سہاگن - خاوند والی (۲) پیاری عریزہ

(۳) جورو - بیوی -

مانگ بٹی - (۱) منٹ) بالوں کی درستگی - کنگھی چوٹی -

مانگ بٹنی میں لگا رہنا - (۱) محاورہ) بناؤ و سنگڑ میں مشغول رہنا -

مانگ بھنڈھی رہے - (دعا) خاوند جیتا رہے سہاگ بنا رہے -

مانگ بھنڈھی ہے - (۱) محاورہ) خاوند زندہ ہے - سہاگن ہے -

مانگ جلی - بیوہ کو عورت جس کا خاوند مر گیا ہو -

مانگ چرنا - آزار لگنا بھونا - چیراٹھنا - کٹوار پنا دور ہونا (طوائفوں کی)

مانگ ڈار - مانگیا (۱) منڈ) ایک قسم کا نکتو یا جس میں مانگ کی شکل ہی ہوتی ہے

مانگ دار خر لوزہ (۱) منڈ) ایک قسم کا لوزہ جس میں مانگ کی طرح

لیکرس بنی ہوتی ہیں -

مانگ ستوارنا (۱) محاورہ) بال درست کرنا - کنگھی چوٹی کرنا -

مانگ کو کھ سے بھنڈھی رہے (دعا) شوہر اور بیٹے جیتے رہیں -

مانگ کھٹنا (۱) محاورہ) ٹھیک لڑکے یا لڑکی کے مرجانے سے رشتہ نہ رہنا (۲)

پہاوی عورت کا مرجانا -

مانگ میں لگ لگنا (۱) محاورہ) بیوہ ہونا - راند ہونا -

مانگ میں سیندور بھرتا - مانگ میں صنل بھرتا - مانگ میں موتی بھرتا -

(۱) محاورہ) عورتیں مانگ میں کبھی سیندور کبھی صنل بھرتی ہیں اور کبھی

مانگ کی جگہ موتی کی لڑیاں آدیں لگتی ہیں -

مانگ نکالنا - سر کے بالوں کے بیچ میں لکیر بنانا -

مانگ (۱) منٹ) خواہش - جاہ - ضرورت - حاجت - گاہی - خریداری (۲)

مانگ تانگ کر کام چلانا - (۱) محاورہ) ادھر ادھر سے لوہا کر کام نکالنا

ادھر ادھر سے پورا کر کے گزارہ کرنا - قرض حام سے وقت گزارنا -

مانگ تانگ کر کھانا (۱) محاورہ) جھبک مانگ کر بسر کرنا -

مانگ کھانا (۱) محاورہ) مانگ کر کھانے والا (رق)

مانگ کیا مانگتا ہے - (۱) محاورہ) امیر لوگ کسی پر بہت مہربان ہو

کر یہ کلمہ زبان پر لاتے ہیں -

مانگ لینا (۱) محاورہ) عاریت سے لینا - مستعار سے لینا - ادھار لینا -

مانگ ہونا (۱) محاورہ) ضرورت ہونا - طلب ہونا -

مانگنا - (مان) گاہی (صفت) طلب کیا ہوا - مستعار لیا ہوا -

مانگنا مانگنا (۱) صفت) قرض لیا ہوا - ادھار لیا ہوا - عاریت لیا ہوا -

مانگنا کرنا - مانگتے رہنا -

مانگنا - (مانگ) نا (۱) مص) درخواست کرنا - چاہنا - طلب کرنا (۲) نسبت

کی درخواست کرنا - سگائی چاہنا (۳) دعا - التجا (۴) ادھار چاہنا (قرض

طلب کرنا (۵) اتفاقاً کرنا -

مانگی تھی نیچے کو ملی اور کو (۱) منٹ) اس وقت کہتے ہیں جب کوئی چیز مانگی

ہوئی چیز کے خلاف ملے -

مانگیے - (مان) گاہی (۱) ادھار - قرض - مستعار -

مانگے پر مانگنا اور بڑھیا کی کرات (۱) منٹ) کوئی بات درست نہیں

خود مختار ہیں اور ادھر ادھر سے کام نکال لیتے ہیں - اس وقت کہتے ہیں جب

ایک شخص کوئی چیز خود مانگ کر لایا ہو اور دوسرا شخص اس سے وہی چیز

مانگ کر کام نکالے -

مانگے تلنے (۱) مانگ فعل) قرض - ادھار - مانگ تانگ کر - ادھار

لے کر -

مانگے تلنے کا (۱) منٹ) (۱) صفت - مذ - منٹ) مانگنا ہوا - مانگی ہوئی (۲)

مستعار لی ہوئی (۳) لی ہوئی -

مانگے تلنے کا کام چلے تو بیاہ کرے بلا ریمیزار - (۱) منٹ)

جب آسانی سے کام ہو جائے تو محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے -

مانگے دینا - عاریت دینا - مستعار دینا -

مانگے کی منگنی اور گڑیا کا منگنا (۱) منٹ) جب کوئی پرانی چیز مانگ

کر استعمال کرے اور اس پر آڑ کر اس وقت کہتے ہیں -

مان لینا (۱) مص) منظور کر لینا - تسلیم کر لینا (۲) راضی ہو جانا -

اقرار کر لینا -

مان مہنت (مان) منٹ) (۱) منٹ) شور وادب یا بیچ بیکار - بڑھ بھگد

فعل غبارا -

ماننا - (مان) نا (۱) مص) تسلیم کرنا - قبول کرنا - منظور کرنا (۲) قیاس کرنا

(۳) خیال کرنا - اثر ماننا (۴) سستی کرنا (۵) تعظیم و تکریم کرنا - ادب

کرنا - احترام کرنا (۶) پاس داری کرنا (۷) استاد جاننا - کسی کے ہنر یا کمال

کا اقرار کرنا (۸) پرستش کرنا - اقتقاد رکھنا (۹) بندگان کی ارواح کیلئے پوچھنے

کا عہد کرنا (۱۰) راضی ہونا خوش ہونا (۱۱) اقرار کرنا - اقبال کرنا (۱۲) مانگ ہونا

مطیع ہونا (۱۳) کہا ماننا (۱۴) جاننا

ماننڈ (۱) صفت) منٹ) نظیر - مشابہ - مطابق - جیسا (۲) جود ہو - یعنی نہ -

مانو - (مان) منٹ) (۱) صفت) جیسا تو یا (۲) امر) تسلیم کرو قبول کرو (۳) قرض کو

چالو (۴) پیار سے ملی کو کہتے ہیں -

مانو تو شور نہیں تو پیچھ (۱) منٹ) اقتقاد ہی سے کسی کی عزت و حرمت کی جاتی

ہے - بلا اعتقاد کچھ بھی نہیں -

مانو نہ مانو (۱) روزمرہ) تم کو ماننے نہ ماننے کا اختیار ہے -

مانوس - (مان) منٹ) (۱) صفت) مانل - مانوف - مانغ - نوگر (۲) پسند

مغروب - ہلا ہوا -

مانوس ہو جانا (۱) محاورہ) مل جانا - گھل مل جانا -

کی نسبت سلطان جلال الدین سلجوقی سے ہے جس کے زمانہ میں
سنہ جلالی ایجاد ہوا۔
ماہ چار دہ - مہ چار دہ - ۵ - ۶ - ۱ - مذہ چودھویں رات کا چاند۔
ماہ چہار ہفتہ - ۶ - ۱ - مذہ چاند جو بعد اٹھائیس روز کے بہت باریک ہو جاتا
ہے اور نظر نہیں آتا کنیت معدوم چیز۔
ماہ در عقرب - چاند کا برج عقرب میں آنا - اس موقع پر اچھا کام کرنا
منع ہے۔

ماہ دو ہفتہ - ۶ - ۱ - صفت چودھویں رات کا چاند۔
ماہ رُخ - (رُوی) - ۶ - ۱ - صفت (۱) چاند جیسے چہرے والا - مشرق (۲)
سفید رنگ کا کبوتر۔
ماہ روزہ - ۶ - ۱ - مذہ رمضان کا مہینہ۔
ماہ سیام - ۶ - ۱ - مذہ وہ چاند جو مقنع نے خشب کے کونٹوں سے نکالا۔
یہ چار مہینے تک نکلتا رہا۔

ماہ سہما (طلعت) - ۱ - صفت چاند جیسی پیشانی والا - محبوب
کی تعریف میں مستعمل ہے۔
ماہ شمسی - ۶ - ۱ - مذہ شمسی سال کا مہینہ۔
ماہ صیام - مہ صیام - ۶ - ۱ - مذہ رمضان کا مہینہ۔
ماہ عزا - ۱ - ۶ - ۱ - مذہ غم و ماتم کا مہینہ - کنیتا محرم کا مہینہ۔
(سٹیوں کے نزدیک)۔

ماہ لقا - ۱ - ۶ - صفت چاند جیسی شکل والا - صفت محبوب میں مستعمل ہے۔
ماہ کامل - ۶ - ۱ - صفت پورا چاند - چودھویں رات کا چاند - پورن ماشی
کا چاند۔

ماہ کنعان - ۱ - ۶ - مذہ کنعان کا چاند - حضرت یوسفؑ سے مراد ہے۔
ماہ مہینہ - ۱ - ۶ - مذہ چکنے والا چاند - کنیت خین مشوق۔
ماہ خشب - ۱ - ۶ - مذہ وہ چاند جو حکیم ابن عطا معروف بہ مقنع نے اجینڈے
سیالی کی ترکیب سے بنا کر روشن کیا تھا - خشب مادہ التہر کا ایک شہر
ہے جہاں یہ چاند بنا گیا تھا۔

ماہ یو - ۱ - ۶ - مذہ مہینے کا پہلا چاند - نیا چاند - ہلال۔
ماہ یگم ماہ - ۱ - ۶ - مذہ چودھویں رات کا چاند۔
ماہ ہوار - ۶ - ۱ - صفت ہر مہینہ - ماہ بہاہ - مشاہرہ - تنخواہ۔
ماہ ہزاری - ۱ - ۶ - ۱ - ۵ - ۶ - ۱ - صفت مہینے کا - پورے مہینے کا (۲) وظیفہ جو ڈکروں
کو ہر مہینہ گزرنے کے بعد دیتے ہیں (۳) جہنم جو عورتوں کو ہر
مہینے آتا ہے۔

ماہ وصال - ۱ - ۶ - ۱ - ۵ - ۶ - ۱ - صفت مہینہ - ہمدام۔
ماہ دُش - ہوش - ۱ - ۶ - صفت چاند کی طرح کنیتا محبوب۔
ماہ یانہ - ماہ سیانہ - ۶ - ۱ - ۵ - ۶ - ۱ - ۵ - ۶ - ۱ - صفت ہلال دار (۲) تنخواہ
یا وظیفہ جو ہر مہینے کے بعد دیا جائے۔ وہ رقم یا چیز جو ہر مہینے کے
بعد دی جائے۔

ماہ وہابی تک تر لڑ لڑ جاتا - ۱ - ۶ - ۱ - ۵ - ۶ - ۱ - بے حد خور و نل ہونا (۲)

ماؤس ہو جانا - ۱ - ۶ - ۱ - ۵ - ۶ - ۱ - ہل جانا بگھل ہل جانا۔
مانی - (دانی) - ۱ - ۶ - ۱ - ۵ - ۶ - ۱ - مذہ سلاطین کا ایک مشہور و معروف نقاش
جو بڑے کاموں کا جو بناتا تھا اور نقاشی کا اپنا مجموعہ بنا تھا - کتاب
"ارتزنگ" اسی کی تصنیف ہے۔
مانی - (دانی) - ۱ - ۶ - ۱ - ۵ - ۶ - ۱ - مذہ وہابی - آبا بچوں کو کھلانے والی عدت (۲) وہ
پھونکی سی سوراخ دار کھڑی جو چکی کی گلی میں ڈالی جاتی ہے - جس سے چکی
کا پاٹ بہ آسانی پھرتا ہے۔

مانی - (دانی) - ۵ - ۶ - صفت مغزور - بگھل بگھٹی - مان کرنے والا۔
مانیٹر - (Monitor) - دانی - ۱ - ۶ - ۱ - ۵ - ۶ - ۱ - مذہ جماعت کا وہ ہتھیار
(طا کا جواست کے بعد جماعت کا انتظام کرتا ہے) ڈرانے والا
ہے، آہن پوش جہاز۔

ماو - ۱ - ۶ - ۱ - ۵ - ۶ - ۱ - مذہ چائے پناہ - گھر - ٹھکانا۔
ماوا - (دانا) - ۱ - ۶ - ۱ - ۵ - ۶ - ۱ - اصل جو ہر (۲) بہت زیادہ کڑھا ہوا دودھ۔
کھو یا (۳) سامان - مسالہ دم - کلف - ماری - کاغذی (۵) مرشدت - غمیرہ
(۶) دودھ - نشاستہ (۷) انڈے کی زردی۔

ماؤس - مذہ (۱) - ۵ - ۶ - ۱ - مذہ ماؤس کا مختلف قسمی مہینے کا آخری دن۔
ماہ - ۱ - ۶ - ۱ - ۵ - ۶ - ۱ - مذہ چاند - قمر - ماہ تاب - چند زمان (۲) مہینہ - ماس۔
ماہ آب - ۱ - ۶ - ۱ - ۵ - ۶ - ۱ - مذہ اکتوبر کا مہینہ۔
ماہ الہی - موسم بہار کا ایک شمسی مہینہ - سنہ الہی کا مہینہ - اس سن کو
شہینشاہ کہتے ہیں ایجاد کیا تھا۔

ماہ بہ ماہ - ۱ - ۶ - ۱ - ۵ - ۶ - ۱ - مہینہ - ماہ وار - ماہانہ۔
ماہ پارہ - ۱ - ۶ - ۱ - ۵ - ۶ - ۱ - صفت چاند کا ٹکڑا - خوب صورت - حسین مشوق - دلدار۔
ماہ پز سست - ۱ - ۶ - ۱ - ۵ - ۶ - ۱ - مذہ چاند کی پورا کرنے والا (۲) مجازا عاشق۔
(۳) بچور۔

ماہ پیکر - چاند جیسے جسم والا - محبوب کی تعریف میں مستعمل ہے۔
ماہ ہتاب - مہتاب - ۱ - ۶ - ۱ - ۵ - ۶ - ۱ - مذہ چاند - قمر - ۲ - کنویر کا وزیر (۳) ایک قسم
کی آتش بازی (۴) مہتاب چاند کی روشنی۔

ماہ ہتاب دینا - ۱ - ۶ - ۱ - ۵ - ۶ - ۱ - محاورہ (۲) ٹوپ کے فیتلہ میں آگ دینا۔
ماہ تابال - ۱ - ۶ - ۱ - ۵ - ۶ - ۱ - مذہ چکنے والا چاند - مشوق کی تعریف میں کہا
جاتا ہے۔

ماہ تابی - مہتابی - ۱ - ۶ - ۱ - ۵ - ۶ - ۱ - مذہ (۱) ایک قسم کا ترنڈ (۲) بکھو ترہ۔
(۳) ایک قسم کا کپڑا جس پر شہزادی یا راجہ کی انکھیں منقوش ہوتی
ہیں (۴) ایک قسم کی آتش بازی جس کے چھوڑنے سے چاند جیسی
روشنی ہو جاتی ہے۔

ماہ تمام - ۱ - ۶ - ۱ - ۵ - ۶ - ۱ - صفت پورا چاند - چودھویں رات کا چاند - ماہ کامل۔
بدر - پورن ماشی۔

ماہ جببیں - مہ جببیں - ۱ - ۶ - ۱ - ۵ - ۶ - ۱ - صفت چاند جیسی پیشانی والا - صفت کے
کے طور پر مشوق کو کہا جاتا ہے۔
ماہ جلالی - ۱ - ۶ - ۱ - ۵ - ۶ - ۱ - مذہ موسم بہار کا ایک شمسی مہینہ - فردوس اس

مبادا۔ دم۔ با۔ دا۔ ا۔ ف۔ کلہ دعاتیہ، ایسا نہ ہو۔ خدا نہ کرے۔ خدا نخواستہ۔
مبادا۔ ۱۔ ۶۔ ص ۱۔ جلدی کرنے والا ۲۔ گذشتہ۔ سابق (۳)۔ جرات۔
یادگیری کرنے والا۔

مبادرت۔ دم۔ با۔ ذرت، ۱۔ ۶۔ ا۔ مٹ (مٹ)۔ جلدی۔ تیزی۔ شتابی۔ سرعت
(۲)۔ سمجھت۔ پیشی (۳)۔ دلیری۔ جرات۔ چالاک۔ حیثی۔

مبادلہ۔ دم۔ با۔ ذلہ، ۱۔ ۶۔ ا۔ مذم۔ آؤن بدل۔ باہم تبادلہ کرنا۔

مبادلہ جنس۔ ۱۔ ۶۔ ف۔ ا۔ مذ۔ جنس دے کر جنس لینا (۱)۔ انگ
(Barter System)

مبادی۔ دم۔ با۔ دی، ۱۔ ۶۔ ا۔ مٹ (مٹ)۔ مبادی کے مع ۱۰ شروع۔ ابتدا۔ آغاز۔ بنیاد۔

اصل ۱۲۲ ابتدائی اصول۔ بنیادی باتیں جمع۔ مبادیات۔

مبادی العلوم۔ ۱۔ ۶۔ ا۔ مٹ (مٹ)۔ علم کی ابتدائی باتیں، جمع کا جانا حصول علم
کے لیے ضروری ہے۔

مبادرت۔ ۱۔ ۶۔ ا۔ مٹ (مٹ)۔ مٹانا۔ کھونا۔ چھیننا۔

مبار۔ ۱۔ ۶۔ ا۔ مذم۔ چلان۔ گلنے۔ پوٹے۔

مبارت۔ دم۔ با۔ برت، ۱۔ ۶۔ ص ۱۔ مقابلہ پر چڑھ کر لڑنے والا کسی بڑھ کر لڑنے
والا سپاہی۔ جنگ جو۔ جنگی بہادر۔ مین جلا۔ جمع۔ مہماندہن۔

مبارزت۔ دم۔ با۔ رت، ۱۔ ۶۔ ا۔ مٹ (مٹ)۔ لڑائی۔ جنگ (۲)۔ لڑائی کے
واسطے صف سے باہر آنا۔

مبارزت طلبی۔ ۱۔ ۶۔ ا۔ مٹ (مٹ)۔ لڑائی کے لیے اپنے مقابل یا حریف کو طلب کرنا
قدیمی جنگوں میں اس کا رواج تھا۔

مبارک۔ دم۔ با۔ رگ، ۱۔ ۶۔ ص ۱۔ باعث برکت۔ برکت دیا گیا (۲)۔ خوش
قسمت۔ نصیب۔ ور۔ بھاگوں (۳)۔ نیک۔ سعید۔ موافق۔ لائق (۴)۔ خوش آمدید
خوشا۔ مبارکباد، شردہ خوش خبری۔

مبارکباد۔ ۱۔ ۶۔ ف۔ ا۔ مٹ (مٹ)۔ خوشخبری۔ شردہ۔ تہنیت۔ شادیانہ (۲)۔ دہلے غیر۔
اشیر باد (۳)۔ مبارک دے۔ برکت نصیب ہو۔

مبارکباد دینا۔ مبارکبادی دینا۔ ۱۔ ۶۔ مٹ (مٹ)۔ خوشی کی تہنیت دینا۔ بدھائی
دینا۔ بدھاوادینا۔

مبارکبادی۔ ۱۔ ۶۔ ف۔ ا۔ مٹ (مٹ)۔ خوش خبری۔ شادیانہ۔ تہنیت۔
بدھائی۔

مبارکبادی گانا۔ ۱۔ ۶۔ مٹ (مٹ)۔ شادی کے گیت گانا۔ شادیانہ گانا۔
بدھائی گانا۔

مبارک سلامت۔ ۱۔ ۶۔ ا۔ مٹ (مٹ)۔ خوشی کی ہادی مبارکباد آپس میں ایک
دوسرے کو مبارکباد دینا۔

مبارک فال۔ ۱۔ ۶۔ ص ۱۔ جس سے نیک ننگوں کا ظہر ہو۔

مبارک قدم۔ ۱۔ ۶۔ ص ۱۔ وہ شخص جس کا آنا باعث برکت ہو۔

مبارک سمے۔ لا۔ کلہ دعاتیہ، خدا نیک کرے۔ اس آئے۔ سازگار ہو۔

مبارک بنی۔ دم۔ با۔ رکی، ۱۔ ۶۔ ا۔ مٹ (مٹ)۔ مبارکبادی۔ تہنیت۔ (۲)۔

دعائے خیر (۳)۔ نیک نغادات رہم، دانے جو تپ محرقہ میں
نکل آتے ہیں۔

ماتول ٹھانا۔ ۱۔ ۶۔ مٹ (مٹ)۔ شادی سے کچھ روز پہلے دو لہاؤں کو زبردگی سے
پہنا کر ٹھانا۔ خاص کر لڑکی کو ایسی جگہ ٹھکا دیتے ہیں جہاں بجز اس کی
ہم سنوں کے اور کوئی نہیں جاتا۔

ماتول پٹھنا۔ ۱۔ ۶۔ مٹ (مٹ)۔ مجازاً، گوشہ نشین ہونا۔ خلوت نشین ہونا۔
گھر سے باہر نہ نکلنا۔

مایا۔ ۱۔ ۶۔ ا۔ مٹ (مٹ)۔ خدا کی قدرت۔ ایشور کی شکتی (۲)۔ ظہور قدرت۔ نیچر۔
رسم۔ دیار کر پارہم، پارہمت (۵)۔ دھوکا۔ قریب (۶)۔ دھن۔

دولت۔ ڈرے، مجیب۔ نادر (۸)۔ رونق۔ بہار۔ کیفیت (۹)۔ کرامت
کرشمہ (۱۰)۔ روح۔ جان۔ آتما۔ پیران (۱۱)۔ سامان۔ دستگاہ (۱۲)۔

دنیا۔ خلقت۔ مخلوق۔

مایا پتھر۔ ۱۔ ۶۔ ا۔ مذم۔ دولت مند۔ مال دار۔ زردار۔ دھنی (۲)۔ لالچی۔
عریض۔ لومبی۔

مایا پتی۔ ۱۔ ۶۔ ا۔ مذم۔ ایشور۔ پریشور۔ خدا کے تعالیٰ۔

مایا خیال۔ ۱۔ ۶۔ ا۔ مذم۔ دولت کا بچہ۔ حرص۔ لالچ۔ لوجھ۔

مایا فرنی۔ ۱۔ ۶۔ ا۔ مٹ (مٹ)۔ فریبی۔ پڑھنا۔ دھوکا کی طرح۔

مایا کوتاہی سے کمر لے کر ہاتھ ا۔ ۱۔ ۶۔ ا۔ مٹ (مٹ)۔ دولت مند کی اور دولت
تلتی داس گریب کی کوئی نہ لوجھ بات ا۔ مٹ (مٹ)۔ ہے۔ امیر لوگ امیر ہی کہتے
ہیں۔ غریب کو کوئی لوجھتک نہیں۔

مایا کے ہیں تین نام۔ پریشور۔ برسا۔ پریش رام۔ ۱۔ ۶۔ مٹ (مٹ)۔ جوں جوں
انسان کے پاس دولت جمع ہوتی جاتی ہے۔ اس کی عزت بڑھتی
جاتی ہے۔

مایوس۔ ۱۔ ۶۔ مٹ (مٹ)۔ نا امید۔ نراس ہے اس (۲)۔ ناکام۔ نامراد
بے نیل مرام (۳)۔ دل شکستہ۔

مایوس کرنا۔ ۱۔ ۶۔ مٹ (مٹ)۔ ناکام کرنا۔ نراس کرنا۔ نراس کرنا۔ نراس کرنا۔
مایوسی ہر ما پو۔ ۱۔ ۶۔ ا۔ مٹ (مٹ)۔ ناکامی۔ شکستہ۔ ولی۔

مایہ۔ ۱۔ ۶۔ ا۔ مٹ (مٹ)۔ لالچی جمع۔ سرمایہ (۲)۔ اصل۔ نراس المال (۳)۔
مادہ۔ جوہر (۴)۔ دستگاہ۔ سامان (۵)۔ مال۔ دولت۔

مایہ دار۔ ۱۔ ۶۔ ا۔ مذم۔ دولت مند۔ مال دار۔ دھن والا۔
مایہ ناز۔ ۱۔ ۶۔ ا۔ مذم۔ فخر و ناز کا سبب (۲)۔ مستحق۔

م۔ ب

مباح۔ دم۔ با۔ ح، ۱۔ ۶۔ ص ۱۔ جائز۔ روا۔ حلال۔ درست۔ پاک۔ شکرہ۔

پوڑہ۔ جمع۔ مباحات۔

مباح کرنا۔ جائز کرنا۔ حلال ٹھہرانا۔ جائز قرار دینا۔

مباحث۔ دم۔ با۔ ح، ۱۔ ۶۔ ا۔ مذم۔ بحثیں۔ بحث کے مقامات۔

مباحثہ۔ دم۔ با۔ ح، ۱۔ ۶۔ ا۔ مذم۔ بحث۔ مناظرہ۔ تکرار۔ سوال و جواب۔

مباحثہ کرنا۔ ۱۔ ۶۔ مٹ (مٹ)۔ بحث کرنا۔ مناظرہ کرنا۔

مباشرت۔ رُم۔ ہا۔ ش۔ رت، ۱۶ ع۔ ۱۔ مشق، عورت مرد کی ہم بستری۔
 جماع، جماعت، مصیبت۔
مباہلت۔ رُم۔ ہا۔ بلیغ، ۱۶ ع۔ ۱۔ مذم، تبلیغ، کلمہ جمع۔ رطبے، نقد، رقوم۔
مباہلغہ۔ رُم۔ ہا۔ ل۔ غم، ۱۶ ع۔ ۱۔ مذم، کسی بات کو بہت بڑھا چڑھا کر بیان کرنا۔ حد سے زیادہ تعریف یا بڑائی کرنا۔ حد سے زیادہ بڑھا جانا، ۲۔ زیادہ گوئی، ۳۔ کسی کام میں سخت کوشش کرنا۔
مباہلغہ کرنا۔ ۱۱۔ محاورہ، زیادہ گوئی کرنا۔ بڑھا کر بیان کرنا۔ اصل کے خلاف کہنا۔ حد سے زیادہ تعریف یا مذمت کرنا۔
مباہلی۔ رُم۔ ہا۔ لی، ۱۶ ع۔ ۱۔ مذم، مینہ کی کچھ، ۱۔ بنیادیں، ۲۔ مکانات۔
 عمارتیں۔
مباہیات۔ رُم۔ ہا۔ بابت، ۱۶ ع۔ ۱۔ مشق، فخر۔ بڑائی، شیخی، ۲۔ شان و شوکت، ۳۔ شیخی کرنا، فخر کرنا۔
مباہلہ۔ رُم۔ ہا۔ ہا۔ لا، ۱۶ ع۔ ۱۔ مذم، ایک دوسرے کے حق میں بددعا کرنا۔ ایک دوسرے کو بُرا کہنا۔ نفخین کرنا۔ اصطلاح شریعت میں کسی متنازعہ فیہ مسئلے کو خدا پر چھوڑتے ہوئے بددعا کرنا کہ جو جو ٹاہو وہ ہر ہا ہو جائے۔
مبتدا۔ رُمبت۔ ہا، ۱۶ ع۔ ۱۔ مذم، آغاز۔ شروع۔ پہل۔ اول۔ ابتدا، ۲۔ اصطلاح علم نجوم میں جملہ اسمیہ کا پہلا جز۔ جس کے متعلق کوئی خبر دی جائے۔
مبتدا خیر۔ ۱۶ ع۔ ۱۔ مشق، اول و آخر۔ ابتدا و انتہا، ۲۔ اسم اور اس کی خبر مسند الیہ و مسند۔
مبتدا خیر ثلثہ۔ ۱۶ ع۔ ۱۔ مقولہ، وہ بات جس کا سر پیر نہ ہو۔ بے سرو پا بات لغو اور بے ہودہ بات۔
مبتدع۔ رُمبت۔ ہا۔ ذم، ۱۶ ع۔ ۱۔ مذم، نئی ایجاد۔ وہ کام جو دین میں نیا نکالا گیا ہو۔
مبتدع۔ رُمبت۔ ہا۔ ذم، ۱۶ ع۔ ۱۔ صفت، دین میں نئی بات نکالنے والا۔ بدعت کرنے والا۔
مبتدی۔ رُمبت۔ ہا۔ ذم، ۱۶ ع۔ ۱۔ مذم، ابتدا کرنے والا۔ نو آموز۔ شروع کرنے والا۔ ۱۔ سیکھنے والا۔ جمع۔ مبتدیان۔
مبتذل۔ رُمبت۔ ہا۔ ذم، ۱۶ ع۔ ۱۔ صفت، ذلیل۔ حقیر۔ ذلیل۔ سفیل۔ کمینہ بے قدر و خفیف۔
مبتسم۔ ۱۶ ع۔ ۱۔ صفت، اچھلنے والا۔ ہنسنے والا۔
مبتلا۔ رُمبت۔ ہا۔ لا، ۱۶ ع۔ ۱۔ صفت، پکڑا ہوا۔ گرفتار۔ ماتموز، ۲۔ چھٹا ہوا اگھا ہوا۔ لپٹا ہوا، اگھا ہوا، ۳۔ بلایا آنت میں پڑا ہوا دم، مشغول۔ مصروف، ۴۔ فریفتہ۔ عاشق، شیدا۔ مفتون۔ دلدادہ۔
مبتلا کرنا۔ ۱۱۔ محاورہ، فریفتہ کرنا، عاشق کر لینا۔ چھٹا لینا۔
مبتلا ہونا۔ ۱۱۔ محاورہ، گرفتار ہونا۔ چھٹنا۔ اگھا ہونا، ۲۔ عاشق ہونا۔ فریفتہ ہونا۔
مبتلائے آنت۔ مبتلائے بلا۔ ۱۶ ع۔ ۱۔ صفت، مصیبت میں

چھٹا ہوا۔ آنت میں گرفتار۔ مصیبت کا مارا۔
مبتلائے عشق۔ ۱۱۔ صفت، عشق میں گرفتار۔ عاشق۔ والد و شیدا۔
مبخت۔ رُمبت۔ ہا۔ حث، ۱۶ ع۔ ۱۔ صفت، ہڈم، بحث۔ معاملہ، ۲۔ بحث یا پیش کش کا کام۔ جمع۔ ۱۔ مباحث۔
مبداء۔ رُمبت۔ ہا۔ ذم، ۱۶ ع۔ ۱۔ مذم، آغاز، شروع ہونے کی جگہ۔ ظاہر ہونے کی جگہ۔ ۲۔ آغاز۔ شروع۔ ابتدا، ۳۔ اصل۔ بنیاد، ۴۔ ہیئت۔
مبداء فیض۔ ۱۶ ع۔ ۱۔ مذم، فیض کا سرچشمہ۔ مجازاً خدائے تعالیٰ۔
مبدع۔ رُمبت۔ ہا۔ ذم، ۱۶ ع۔ ۱۔ صفت، بدلا ہوا۔ بدلنا ہوا۔ نئی چیز کا پیدا کرنے والا۔ بے مادہ بنانے والا۔ اللہ تعالیٰ۔
مبدل۔ رُمبت۔ ہا۔ ذم، ۱۶ ع۔ ۱۔ صفت، بدلنا ہوا۔ بدلنا ہوا۔ تبدیل شدہ۔ متغیر۔
مبدلہ۔ رُمبت۔ ہا۔ ذم، ۱۶ ع۔ ۱۔ صفت، فضول خرچ۔ اسراف کرنے والا۔ جمع۔ ۱۔ مبدلین۔
مبدول۔ رُمبت۔ ہا۔ ذم، ۱۶ ع۔ ۱۔ صفت، فروغ کیا گیا، ۲۔ لگایا گیا، ۳۔ منعطف۔
مبذرا۔ رُمبت۔ ہا۔ ذم، ۱۶ ع۔ ۱۔ صفت، پاک۔ بے مہیب۔ بڑی۔ صاف۔ منترہ۔ ۲۔ بے ناز، متعطر۔
مبذرو۔ رُمبت۔ ہا۔ ذم، ۱۶ ع۔ ۱۔ صفت، سرد کیا ہوا۔ ٹھنڈا کیا ہوا۔
مبذرو۔ رُمبت۔ ہا۔ ذم، ۱۶ ع۔ ۱۔ صفت، سرد کرنے والا۔
مبذرات۔ رُمبت۔ ہا۔ ذم، ۱۶ ع۔ ۱۔ صفت، سرد کرنے والی چیزیں۔ وہ دوائیں جن کی تاثیر سرد ہو۔
مبذرن۔ رُمبت۔ ہا۔ ذم، ۱۶ ع۔ ۱۔ مذم، پانچاٹھ لکھنے کی جگہ۔ مقعد۔ ڈبیر۔
مبذرم۔ رُمبت۔ ہا۔ ذم، ۱۶ ع۔ ۱۔ صفت، مضبوط۔ استوار۔ مستحکم۔ ضروری۔
 کہہ لکھنے والی۔ سندی۔
مبذرو۔ رُمبت۔ ہا۔ ذم، ۱۶ ع۔ ۱۔ صفت، ٹھنڈا کیا گیا۔ پاک۔ مقدس۔ گناہوں سے بری۔
 ۲۔ مقبول۔ قبول کیا گیا جیسے حجِ مبرور۔
مبذروص۔ ۱۶ ع۔ ۱۔ صفت، برص کا مریض۔ چھلیبھی کا مریض۔
مبذروص۔ رُمبت۔ ہا۔ ذم، ۱۶ ع۔ ۱۔ صفت، دلیل سے ثابت کیا ہوا۔ ثابت۔ مضبوط۔
مبسوط۔ رُمبت۔ ہا۔ ذم، ۱۶ ع۔ ۱۔ صفت، پھیلا ہوا، کشا۔ ۲۔ فراخ۔
مبشتر۔ رُمبت۔ ہا۔ ذم، ۱۶ ع۔ ۱۔ صفت، جس کی خوشخبری دی گئی، کو خوشخبری دیا گیا۔
مبشتر۔ رُمبت۔ ہا۔ ذم، ۱۶ ع۔ ۱۔ صفت، بشارت دینے والا۔ خوشخبری سنانے والا۔ جمع۔ ۱۔ مبشترین۔
مبصتر۔ رُمبت۔ ہا۔ ذم، ۱۶ ع۔ ۱۔ صفت، دیکھنے والا۔ بینا، ۲۔ پکھنے والا۔
مبصتر کار۔ ۱۶ ع۔ ۱۔ صفت، صلاح کار۔ (انگ) (Adviser)
مبصتر ہوئی۔ ۱۶ ع۔ ۱۔ صفت، وہی کی جانچ پڑتال کرنے والا۔
مبطل۔ رُمبت۔ ہا۔ ذم، ۱۶ ع۔ ۱۔ صفت، باطل کرنے والا۔
مبغوث۔ رُمبت۔ ہا۔ ذم، ۱۶ ع۔ ۱۔ صفت، اٹھا یا گیا۔ بھیجا گیا۔ پیدا کیا گیا۔
مبغوث ہونا۔ ۱۶ ع۔ ۱۔ صفت، نبی کو بھیجا جانا۔
مبغوض۔ رُمبت۔ ہا۔ ذم، ۱۶ ع۔ ۱۔ صفت، بغض کیا گیا۔ دشمن رکھا گیا۔ قابل نفرت۔

مُتَمَوِّج - رُم. ت. جی، ۱ ع. ۶. ف. ا. ممت، اہل تشیع میں وہ عورت جس سے مترو کیا گیا ہو۔ مقررہ مدت کیلئے نکاحی ہوئی عورت۔
مُتَمَلِّم - رُم. ت. ۱ ع. ۶. لَم. ۶ ع. ۱. صفت، الم پایا ہوا۔ جسے رنج پہنچا ہو۔ رنجیدہ۔ دکھیا۔
مُتَمَالِی - رُم. ت. ل، ۱ ع. ۵. ۱. ممت، وہ جگہ جو گھوڑے کے پیشاب کے لیے ہر (۲) گاموں میں بر گھوڑے نے پیشاب کیا ہو۔
مُتَمَاطِل - رُم. ت. اُم، ۱ ع. ۱. ۱. ممت، تامل کرنے والا۔ سوچنے والا۔
مُتَمَنَّنَا - رُم. ت. نا، ۱ ع. ۵. ۱. ممت، مگر کو پیشاب کرانا، ۱۶۔ مکر م جسم میں پیشاب کرنے کی تھیلی۔ مثلاً: مُتَمَنَّنَا۔
مُتَمَنَّنَات - رُم. ت. بت، ۱ ع. ۱. ۱. ممت، اسمجد کی مضبوطی، پیچگی۔ اُستوری۔ سنگینی (۲)، تہذیب (۳)، خیالات کی آراستگی اور درستی۔ زبان کا لیے بڑا الفاظ اور خیالات سے پاک ہونا۔
مُتَمَانِی - رُم. ت. ن، ۱ ع. ۵. ۱. ممت، اصل میں گھوڑے کے پیشاب کر ٹھی جگہ گھوڑے کا پیشاب۔
مُتَمَاطِل - رُم. ت. اہ، ۱ ع. ۶. صفت، المیہ کرنے والا۔ بیابا۔ شادی شدہ۔ بیوی بچے والا۔
مُتَمَادِر - رُم. ت. با، ۱ ع. ۵. ۱. صفت، جلدی کے آگے بڑھ جانے والا۔ (۲) جلد ذہن میں آنے والا (۳) جلد لگنے والا۔
مُتَمَادِل - رُم. ت. با، ۱ ع. ۵. ۱. صفت، بارسی سے آنے یا کام کرنے والا۔
مُتَمَادِل - رُم. ت. با، ۱ ع. ۵. ۱. صفت، وہ جو بے (۲) اصطلاح اقلیدس، دو خطوط متوازی بر جب تیسرا خط آگے گئے تو اس خط کے دونوں طرف کے داخلی زاویے قہما قہما کہلاتے ہیں بشرطیکہ متعلقہ نہ ہوں۔
مُتَمَجِّز - رُم. ت. یح، ۱ ع. ۶. صفت، علم کا دریا بہت بڑا عالم۔
مُتَمَدِّل - رُم. ت. بذر، ۱ ع. ۵. ۱. صفت، بدلا ہوا۔ تبدیل شدہ۔
مُتَمَدِّل - رُم. ت. بذر، ۱ ع. ۶. صفت، بدلنے والا۔ تبدیل کرنے والا۔ کسی چیز کا معاوضہ لینے والا۔
مُتَمَتَّرِک - رُم. ت. بزرگ، ۱ ع. ۶. صفت، برکت والا۔ مقدس۔ پاک۔ صاف۔ پوچر (۲)، معزز، بزرگ۔ قابل تعظیم۔ ہونٹ کے لیے متبرک۔
مُتَمَتَّرِک - رُم. ت. بزرگ، ۱ ع. ۶. صفت، برکت والی چیز یا ک چیز۔
مُتَمَتَّرِم - رُم. ت. بن، ۱ ع. ۶. صفت، مسکرانے والا (۲) شگفتہ۔ اُکھلا ہوا۔
مُتَمَتِّع - رُم. ت. بن، ۱ ع. ۶. صفت، پیچھے چلنے والا۔ پیروی کرنے والا۔
مُتَمَتِّع - رُم. ت. بن، ۱ ع. ۶. صفت، فرزند میں لیا ہوا۔ گود لیا ہوا۔
مُتَمَتِّع - رُم. ت. بن، ۱ ع. ۶. صفت، فرزند ہی میں لینا۔ گود لینا۔
مُتَمَتِّع - رُم. ت. بن، ۱ ع. ۶. صفت، فرزند ہی میں لینا۔ گود لینا۔
مُتَمَتِّع - رُم. ت. بن، ۱ ع. ۶. صفت، فرزند ہی میں لینا۔ گود لینا۔

مُتَمَوِّج - رُم. ت. جی، ۱ ع. ۶. ف. ا. ممت، اہل تشیع میں وہ عورت جس سے مترو کیا گیا ہو۔ مقررہ مدت کیلئے نکاحی ہوئی عورت۔
مُتَمَلِّم - رُم. ت. ۱ ع. ۶. لَم. ۶ ع. ۱. صفت، الم پایا ہوا۔ جسے رنج پہنچا ہو۔ رنجیدہ۔ دکھیا۔
مُتَمَالِی - رُم. ت. ل، ۱ ع. ۵. ۱. ممت، وہ جگہ جو گھوڑے کے پیشاب کے لیے ہر (۲) گاموں میں بر گھوڑے نے پیشاب کیا ہو۔
مُتَمَاطِل - رُم. ت. اُم، ۱ ع. ۱. ۱. ممت، تامل کرنے والا۔ سوچنے والا۔
مُتَمَنَّنَا - رُم. ت. نا، ۱ ع. ۵. ۱. ممت، مگر کو پیشاب کرانا، ۱۶۔ مکر م جسم میں پیشاب کرنے کی تھیلی۔ مثلاً: مُتَمَنَّنَا۔
مُتَمَنَّنَات - رُم. ت. بت، ۱ ع. ۱. ۱. ممت، اسمجد کی مضبوطی، پیچگی۔ اُستوری۔ سنگینی (۲)، تہذیب (۳)، خیالات کی آراستگی اور درستی۔ زبان کا لیے بڑا الفاظ اور خیالات سے پاک ہونا۔
مُتَمَانِی - رُم. ت. ن، ۱ ع. ۵. ۱. ممت، اصل میں گھوڑے کے پیشاب کر ٹھی جگہ گھوڑے کا پیشاب۔
مُتَمَاطِل - رُم. ت. اہ، ۱ ع. ۶. صفت، المیہ کرنے والا۔ بیابا۔ شادی شدہ۔ بیوی بچے والا۔
مُتَمَادِر - رُم. ت. با، ۱ ع. ۵. ۱. صفت، جلدی کے آگے بڑھ جانے والا۔ (۲) جلد ذہن میں آنے والا (۳) جلد لگنے والا۔
مُتَمَادِل - رُم. ت. با، ۱ ع. ۵. ۱. صفت، بارسی سے آنے یا کام کرنے والا۔
مُتَمَادِل - رُم. ت. با، ۱ ع. ۵. ۱. صفت، وہ جو بے (۲) اصطلاح اقلیدس، دو خطوط متوازی بر جب تیسرا خط آگے گئے تو اس خط کے دونوں طرف کے داخلی زاویے قہما قہما کہلاتے ہیں بشرطیکہ متعلقہ نہ ہوں۔
مُتَمَجِّز - رُم. ت. یح، ۱ ع. ۶. صفت، علم کا دریا بہت بڑا عالم۔
مُتَمَدِّل - رُم. ت. بذر، ۱ ع. ۵. ۱. صفت، بدلا ہوا۔ تبدیل شدہ۔
مُتَمَدِّل - رُم. ت. بذر، ۱ ع. ۶. صفت، بدلنے والا۔ تبدیل کرنے والا۔ کسی چیز کا معاوضہ لینے والا۔
مُتَمَتَّرِک - رُم. ت. بزرگ، ۱ ع. ۶. صفت، برکت والا۔ مقدس۔ پاک۔ صاف۔ پوچر (۲)، معزز، بزرگ۔ قابل تعظیم۔ ہونٹ کے لیے متبرک۔
مُتَمَتَّرِک - رُم. ت. بزرگ، ۱ ع. ۶. صفت، برکت والی چیز یا ک چیز۔
مُتَمَتَّرِم - رُم. ت. بن، ۱ ع. ۶. صفت، مسکرانے والا (۲) شگفتہ۔ اُکھلا ہوا۔
مُتَمَتِّع - رُم. ت. بن، ۱ ع. ۶. صفت، پیچھے چلنے والا۔ پیروی کرنے والا۔
مُتَمَتِّع - رُم. ت. بن، ۱ ع. ۶. صفت، فرزند میں لیا ہوا۔ گود لیا ہوا۔
مُتَمَتِّع - رُم. ت. بن، ۱ ع. ۶. صفت، فرزند ہی میں لینا۔ گود لینا۔
مُتَمَتِّع - رُم. ت. بن، ۱ ع. ۶. صفت، فرزند ہی میں لینا۔ گود لینا۔

متخیل - رُم ت. عُق بلن، ۱۶ ع. صفت (خلل ڈالنے والا)۔

متخیل - رُم ت. عُجی، ۱۶ ع. صفت (خیال کیا گیا خیال میں لایا ہوا)۔
متخیل - رُم ت. عُجی، ۱۶ ع. صفت (خیال کیا گیا جہاں خیال پیدا ہو یعنی دماغ)۔

متخیل - رُم ت. عُجی، ۱۶ ع. صفت (خیال میں لائے کی قوت)۔ سوجنے کی قوت، ایک دماغی قوت کا نام جس سے انسان غیر جانم چیزوں کا نقش دل میں بناتا ہے، وہ خیال قیاس۔

متداویر - رُم ت. داؤن، ۱۶ ع. صفت (ہاتھوں میں پھری ہوئی چیز)۔
دست بہ دست پہنچی ہوئی چیز - متوج۔
متداویر - ۱۶ ع. صفت (مشق) ایک دوسرے سے باری باری لیا گیا، ہاتھوں ہاتھ لیا گیا - راج۔

متدین - رُم ت. دُی، ۱۶ ع. صفت (دا، دین دار - ایمان دار)۔
دیانت دار - امانت، ۱۰ امین - امانت دار - معاطہ اور بات کا سبب اور پورا۔

متذہب - رُم ت. ذب، ۱۶ ع. صفت (تذہب میں پڑنے والا)۔
تذہب میں پڑنے والا - طفا ہوا - جمع - متذہبین۔
متذکرہ - رُم ت. ذک، ۱۶ ع. صفت (ذکر کیا گیا - مذکورہ)۔
متذکرہ بالا - ۱۶ ع. صفت (جس کا ذکر اوپر کیا گیا ہو) - متذکرہ بالا۔
متذکرہ ذیل - وہ جس کا ذکر آگے آئے گا۔

متذکرہ - ۱۶ ع. صفت (۱۰ - ۱۱ - ۱۲ - ۱۳ - ۱۴ - ۱۵ - ۱۶ - ۱۷ - ۱۸ - ۱۹ - ۲۰)۔
سرگزشت، ۲۴ - دوست - یار - آشنا۔

مشرافی - رُم ت. را، ۱۶ ع. صفت (مشت، دوستی - پاراڈ)۔
مترادف - رُم ت. را، ۱۶ ع. صفت (مترادف - دو ایسے لفظ جن کے معنی ایک ہی ہوں - جمع - مترادفات)۔

مترتب - رُم ت. ترتب، ۱۶ ع. صفت (ترتیب دیا گیا)۔
مترتب - رُم ت. ترتب، ۱۶ ع. صفت (ترتیب دیئے والا)۔
مترجم - رُم ت. ترجم، ۱۶ ع. صفت (ترجمہ کرنے والا)۔
مترجم - رُم ت. ترجم، ۱۶ ع. صفت (ترجمہ کیا ہوا)۔
مترادف - رُم ت. را، ۱۶ ع. صفت (مترادف کرنے والا)۔
مترادف - رُم ت. را، ۱۶ ع. صفت (مترادف کرنے والا)۔

مترادف - رُم ت. را، ۱۶ ع. صفت (مترادف کرنے والا)۔
مترادف - رُم ت. را، ۱۶ ع. صفت (مترادف کرنے والا)۔

مترادف - رُم ت. را، ۱۶ ع. صفت (مترادف کرنے والا)۔
مترادف - رُم ت. را، ۱۶ ع. صفت (مترادف کرنے والا)۔

مترادف - رُم ت. را، ۱۶ ع. صفت (مترادف کرنے والا)۔
مترادف - رُم ت. را، ۱۶ ع. صفت (مترادف کرنے والا)۔

مترادف - رُم ت. را، ۱۶ ع. صفت (مترادف کرنے والا)۔
مترادف - رُم ت. را، ۱۶ ع. صفت (مترادف کرنے والا)۔

مترادف - رُم ت. را، ۱۶ ع. صفت (مترادف کرنے والا)۔

مترادف - رُم ت. را، ۱۶ ع. صفت (مترادف کرنے والا)۔
مترادف - رُم ت. را، ۱۶ ع. صفت (مترادف کرنے والا)۔

مترادف - رُم ت. را، ۱۶ ع. صفت (مترادف کرنے والا)۔
مترادف - رُم ت. را، ۱۶ ع. صفت (مترادف کرنے والا)۔

مترادف - رُم ت. را، ۱۶ ع. صفت (مترادف کرنے والا)۔
مترادف - رُم ت. را، ۱۶ ع. صفت (مترادف کرنے والا)۔

مترادف - رُم ت. را، ۱۶ ع. صفت (مترادف کرنے والا)۔
مترادف - رُم ت. را، ۱۶ ع. صفت (مترادف کرنے والا)۔

مترادف - رُم ت. را، ۱۶ ع. صفت (مترادف کرنے والا)۔
مترادف - رُم ت. را، ۱۶ ع. صفت (مترادف کرنے والا)۔

مترادف - رُم ت. را، ۱۶ ع. صفت (مترادف کرنے والا)۔
مترادف - رُم ت. را، ۱۶ ع. صفت (مترادف کرنے والا)۔

مترادف - رُم ت. را، ۱۶ ع. صفت (مترادف کرنے والا)۔
مترادف - رُم ت. را، ۱۶ ع. صفت (مترادف کرنے والا)۔

مترادف - رُم ت. را، ۱۶ ع. صفت (مترادف کرنے والا)۔
مترادف - رُم ت. را، ۱۶ ع. صفت (مترادف کرنے والا)۔

مترادف - رُم ت. را، ۱۶ ع. صفت (مترادف کرنے والا)۔
مترادف - رُم ت. را، ۱۶ ع. صفت (مترادف کرنے والا)۔

مترادف - رُم ت. را، ۱۶ ع. صفت (مترادف کرنے والا)۔
مترادف - رُم ت. را، ۱۶ ع. صفت (مترادف کرنے والا)۔

مترادف - رُم ت. را، ۱۶ ع. صفت (مترادف کرنے والا)۔
مترادف - رُم ت. را، ۱۶ ع. صفت (مترادف کرنے والا)۔

مترادف - رُم ت. را، ۱۶ ع. صفت (مترادف کرنے والا)۔
مترادف - رُم ت. را، ۱۶ ع. صفت (مترادف کرنے والا)۔

متعدد (م.ت۔ صَدَّ دُ، ۱۰ ع۔ صَف) گئے ہوئے۔ تھوڑے۔ چند، بہت کئی، بہتر سے (۲)، مختلف، جدا جدا، منفرد، گنتی کے۔

متعدی (م.ت۔ صَدَّ دُ، ۱۰ ع۔ صَف) جس سے بڑھنے والا (۲)، طلب میں وہ مرض جو ایک سے دوسرے کو لگے (۳)، کوئی وہ فعل جو مفول کو چلے۔

متعدی امراض (م.ت۔ صَدَّ دُ، ۱۰ ع۔ صَف) چھوٹ چھوٹ سے پیدا ہونے والی بیماریاں۔

متعدد (م.ت۔ صَدَّ دُ، ۱۰ ع۔ صَف) مشکل، دشوار، مجال کے قریب۔

متغیر (م.ت۔ صَدَّ دُ، ۱۰ ع۔ صَف) بدلنے والا (۲)، کئی کئی بار یا

متغیر (م.ت۔ صَدَّ دُ، ۱۰ ع۔ صَف) غلتنے والا۔

متغیر (م.ت۔ صَدَّ دُ، ۱۰ ع۔ صَف) غلتنے والا۔

متغیر (م.ت۔ صَدَّ دُ، ۱۰ ع۔ صَف) غلتنے والا۔

متغیر (م.ت۔ صَدَّ دُ، ۱۰ ع۔ صَف) غلتنے والا۔

متغیر (م.ت۔ صَدَّ دُ، ۱۰ ع۔ صَف) غلتنے والا۔

متغیر (م.ت۔ صَدَّ دُ، ۱۰ ع۔ صَف) غلتنے والا۔

متغیر (م.ت۔ صَدَّ دُ، ۱۰ ع۔ صَف) غلتنے والا۔

متغیر (م.ت۔ صَدَّ دُ، ۱۰ ع۔ صَف) غلتنے والا۔

متغیر (م.ت۔ صَدَّ دُ، ۱۰ ع۔ صَف) غلتنے والا۔

متغیر (م.ت۔ صَدَّ دُ، ۱۰ ع۔ صَف) غلتنے والا۔

متغیر (م.ت۔ صَدَّ دُ، ۱۰ ع۔ صَف) غلتنے والا۔

متغیر (م.ت۔ صَدَّ دُ، ۱۰ ع۔ صَف) غلتنے والا۔

متغیر (م.ت۔ صَدَّ دُ، ۱۰ ع۔ صَف) غلتنے والا۔

متغیر (م.ت۔ صَدَّ دُ، ۱۰ ع۔ صَف) غلتنے والا۔

متصّدع (م.ت۔ صَدَّ دُ، ۱۰ ع۔ صَف) درود میں دینے والا تکلیف دینے والا۔

متصدی (م.ت۔ صَدَّ دُ، ۱۰ ع۔ صَف) درود میں دینے والا تکلیف دینے والا۔

متصدی (م.ت۔ صَدَّ دُ، ۱۰ ع۔ صَف) درود میں دینے والا تکلیف دینے والا۔

متصدی (م.ت۔ صَدَّ دُ، ۱۰ ع۔ صَف) درود میں دینے والا تکلیف دینے والا۔

متصدی (م.ت۔ صَدَّ دُ، ۱۰ ع۔ صَف) درود میں دینے والا تکلیف دینے والا۔

متصدی (م.ت۔ صَدَّ دُ، ۱۰ ع۔ صَف) درود میں دینے والا تکلیف دینے والا۔

متصدی (م.ت۔ صَدَّ دُ، ۱۰ ع۔ صَف) درود میں دینے والا تکلیف دینے والا۔

متصدی (م.ت۔ صَدَّ دُ، ۱۰ ع۔ صَف) درود میں دینے والا تکلیف دینے والا۔

متصدی (م.ت۔ صَدَّ دُ، ۱۰ ع۔ صَف) درود میں دینے والا تکلیف دینے والا۔

متصدی (م.ت۔ صَدَّ دُ، ۱۰ ع۔ صَف) درود میں دینے والا تکلیف دینے والا۔

متصدی (م.ت۔ صَدَّ دُ، ۱۰ ع۔ صَف) درود میں دینے والا تکلیف دینے والا۔

متصدی (م.ت۔ صَدَّ دُ، ۱۰ ع۔ صَف) درود میں دینے والا تکلیف دینے والا۔

متصدی (م.ت۔ صَدَّ دُ، ۱۰ ع۔ صَف) درود میں دینے والا تکلیف دینے والا۔

متصدی (م.ت۔ صَدَّ دُ، ۱۰ ع۔ صَف) درود میں دینے والا تکلیف دینے والا۔

متصدی (م.ت۔ صَدَّ دُ، ۱۰ ع۔ صَف) درود میں دینے والا تکلیف دینے والا۔

متصدی (م.ت۔ صَدَّ دُ، ۱۰ ع۔ صَف) درود میں دینے والا تکلیف دینے والا۔

متصدی (م.ت۔ صَدَّ دُ، ۱۰ ع۔ صَف) درود میں دینے والا تکلیف دینے والا۔

متصدی (م.ت۔ صَدَّ دُ، ۱۰ ع۔ صَف) درود میں دینے والا تکلیف دینے والا۔

متصدی (م.ت۔ صَدَّ دُ، ۱۰ ع۔ صَف) درود میں دینے والا تکلیف دینے والا۔

متصدی (م.ت۔ صَدَّ دُ، ۱۰ ع۔ صَف) درود میں دینے والا تکلیف دینے والا۔

مُتَغَيَّر ر.م.ت. غی۔ یز۔ (ع. صف) بدلنے والا۔ تبدیل ہونے والا۔ قابل تغیر۔ **تَغْيَرٌ** ۱۲، غیر مستقل بے ثبات۔

مُتَغَاوَاتٌ ر.م.ت. ف. رت. (ع. صف) فرق کیا گیا، دوڑ گیا، بوا۔

مُتَغَاوَاتٌ ر.م.ت. ف. رت. (ع. صف) فرق رکھنے والا، ایک دوسرے سے دور ہونے والا، مختلف، متضاد۔

مُتَغَيِّضٌ ر.م.ت. ف. ج. ص. (ع. صف) ڈھونڈنے والا، تلاش کرنے والا۔ جستجو کرنے والا، متلاشی۔ کسوچی رہ تحقیق کرنے والا۔ محقق۔

مُتَغَيِّرٌ ر.م.ت. ف. ر. ب. (ع. صف) اگلا۔ تہنا۔ یگانہ۔

مُتَغَيِّرٌ ر.م.ت. ف. ر. ب. (ع. صف) کسی چیز سے اُس کی شان کی طرح نکلنے والا۔

مُتَغَيَّرٌ ر.م.ت. ف. ر. ب. (ع. صف) بوجھا ہوا، الگ الگ۔ برآگندہ، منتشر۔

مُتَغَيَّرَاتٌ ر.م.ت. ف. ر. ب. رت. (ع. صف) متغیر کی جمع، مختلف چیزیں۔

۲، حساب کی مختلف رقمیں، زمین کے دو جہاں اور مختلف حصے

جو ایک گاؤں یا اعلیٰ میں شامل ہوں۔

مُتَغَيَّرٌ ر.م.ت. ف. ج. ص. (ع. صف) اتفاق کرنے والا، ملا جلا، شامل۔ لگا ہوا۔

۲، مضامند، موافق، ہم خیال، ہم رائے، ہم صلاح۔

مُتَغَيَّرٌ ر.م.ت. ف. ج. ص. (ع. صف) ہم رائے، ہم صلاح، ہم مشورہ۔

مُتَغَيَّرٌ ر.م.ت. ف. ج. ص. (ع. صف) ایک زبان بول کر، ایک جاں۔

مُتَغَيَّرٌ ر.م.ت. ف. ج. ص. (ع. صف) ہونا، ایک زبان ہونا، ایک دل ہونا۔

مُتَغَيَّرٌ ر.م.ت. ف. ج. ص. (ع. صف) اتفاق کیا، ہوا۔

مُتَغَيَّرٌ ر.م.ت. ف. ج. ص. (ع. صف) جس پر اتفاق کیا گیا ہو، سب کی رائے اور مرضی کے مطابق۔

مُتَغَيَّرٌ ر.م.ت. ف. ج. ص. (ع. صف) اتفاق کیا، ہوا، جیسے متفقہ قوت۔

مُتَغَيَّرٌ ر.م.ت. ف. ج. ص. (ع. صف) فکر مند، رنجیدہ، منموم، آداس۔

مُتَغَيَّرٌ ر.م.ت. ف. ج. ص. (ع. صف) مختلف فن جاننے والا۔

مُتَغَيَّرٌ ر.م.ت. ف. ج. ص. (ع. صف) ہنگامہ فزوں، دوغاباز، عیار۔

مُتَغَايِلٌ ر.م.ت. ف. ج. ص. (ع. صف) مقابلہ کرنے والا، حریف۔

۲، آسنے سامنے۔

مُتَغَايِلٌ ر.م.ت. ف. ج. ص. (ع. صف) ایک دوسرے کے نزدیک (۱، ۲)۔

مُتَغَايِلٌ ر.م.ت. ف. ج. ص. (ع. صف) تقاضا کرنے والا، مانگنے والا۔

طلب کرنے والا۔

مُتَغَايِلٌ ر.م.ت. ف. ج. ص. (ع. صف) ایک دوسرے کو کاٹنے والا۔

مُتَغَايِلٌ ر.م.ت. ف. ج. ص. (ع. صف) قطرہ قطرہ چکنے والا۔

مُتَغَايِلٌ ر.م.ت. ف. ج. ص. (ع. صف) پیٹنے والا، راز، ملازمت سے سبکدوش ہو کر بیٹھنے والا (۲، ۳) سبکدوش۔

مُتَغَايِلٌ ر.م.ت. ف. ج. ص. (ع. صف) آگے بڑھنے والا، اگلا، پہلے زمانے کا سابق، پرانا۔

مُتَغَايِلٌ ر.م.ت. ف. ج. ص. (ع. صف) مستعد کی جمع۔ اگلے زمانے کے سابقین۔

مُتَغَايِلٌ ر.م.ت. ف. ج. ص. (ع. صف) پیریزگار، گنڈا بول سے بچنے والا، غلط شرع کاموں سے پرہیز کرنے والا، خدا ترس۔

مُتَغَايِلٌ ر.م.ت. ف. ج. ص. (ع. صف) اگلیز کرنے والا، معزور، گھنڈی۔

خود پستہ (۲) کمال بزرگی والا۔ بزرگ عمر۔ خدا سے تعالیٰ کا ایک

مُتَغَايِلٌ ر.م.ت. ف. ج. ص. (ع. صف) کفایت کرنے والا۔ کفیل۔

ضامن۔ ذمہ دار۔

مُتَغَايِلٌ ر.م.ت. ف. ج. ص. (ع. صف) تکلیف دینے والا، راز، تکلیف کرنے والا، کوشش کرنے والا۔

مُتَغَايِلٌ ر.م.ت. ف. ج. ص. (ع. صف) احکام کرنے والا، بات کرنے والا۔

مُتَغَايِلٌ ر.م.ت. ف. ج. ص. (ع. صف) مشکل کی جمع، ناگام کرنے والے لوگ (۲) وہ لوگ جو مذہبی اُمور عقلی دلائل سے ثابت کرتے ہیں۔ علم کلام کے ماہر۔

مُتَغَايِلٌ ر.م.ت. ف. ج. ص. (ع. صف) مجھوسہ کرنے والا، بکیر کرنے والا۔

مُتَغَايِلٌ ر.م.ت. ف. ج. ص. (ع. صف) تلاش کرنے والا، ڈھونڈنے والا۔ جستجو کرنے والا، ترک لفظ تلاش سے عروج طریقہ پر اسم فاعل بنایا گیا ہے۔

مُتَغَايِلٌ ر.م.ت. ف. ج. ص. (ع. صف) تلامذہ، علم برپا کرنے والا، تہجدی طے مارنے والا۔ موعیزان طوفانی۔

مُتَغَايِلٌ ر.م.ت. ف. ج. ص. (ع. صف) طبیعت کا مالش کرنا، قہ کرنے کو جی جاننا۔

مُتَغَايِلٌ ر.م.ت. ف. ج. ص. (ع. صف) لذت اٹھانے والا، مزہ چکھنے والا۔ لطف اٹھانے والا۔

مُتَغَايِلٌ ر.م.ت. ف. ج. ص. (ع. صف) غیر مستقل مزاج۔ رنگ برنگ۔

روستے والا۔ جس کے مزاج میں استقلال نہ ہو۔

مُتَغَايِلٌ ر.م.ت. ف. ج. ص. (ع. صف) غیر مستقل طبیعت والا۔ جس کا مزاج گھٹی گھڑی بدلتا رہے۔

مُتَغَايِلٌ ر.م.ت. ف. ج. ص. (ع. صف) طبیعت کا مالش کرنا، اُکھاٹی۔

مُتَغَايِلٌ ر.م.ت. ف. ج. ص. (ع. صف) ماہی، دراز۔ طویل۔

مُتَغَايِلٌ ر.م.ت. ف. ج. ص. (ع. صف) فائدہ اٹھانے والا، نفع حاصل کرنے والا۔ مستفید (۲) راج اور عمرہ دونوں ایک ہی وقت میں کرنے والا۔

مُتَغَايِلٌ ر.م.ت. ف. ج. ص. (ع. صف) مانند، ہم شکل۔

مُتَغَايِلٌ ر.م.ت. ف. ج. ص. (ع. صف) بسنے والا، جذب۔

مُتَغَايِلٌ ر.م.ت. ف. ج. ص. (ع. صف) مٹھو کرنے والا، نامان، سرکش۔

مُتَغَايِلٌ ر.م.ت. ف. ج. ص. (ع. صف) پھرا، بوا۔

مُتَغَايِلٌ ر.م.ت. ف. ج. ص. (ع. صف) چنگل ماننے والا۔ پھلنے والا۔ ماننے والا۔

مختص - ر.م.ت. بک بکن، ۱۶ - ص. جگہ پر ملنے والا - قرار پھیلنے والا -
 انسان آدمی - شخص - نفر -
مختصک - ۱۶ - ا. نذ - ہاچی -

مختصی - ر.م.ت. ۵۶ - ۱ - مٹ - پشاپ کرنے کا عضو -
مختواثر - ر.م.ت. - واثر، ۱۶ - ص. ایک کے بعد ایک کے بعد لگے
 لگانے - سلسلہ دار - مسلسل -
مختوارث - ر.م.ت. - وارث، ۱۶ - ص. ہا، ہم - وارث پانے والا -
مختوارث امراض - (۱۱ - نذ) - موروثی امراض - ایسی بیماریاں جو
 بچوں کو درث میں ملیں - (انگ ۱)

(Hereditary Diseases)

مختوارث - ر.م.ت. - وارث، ۱۶ - ص. ہا، ہم - ایک جگہ آنے والا - ایک مدرسے
 کے بعد آنے والا -

مختوازی - ر.م.ت. - وازی، ۱۶ - ص. برابر فاصلے پر رہنے والا - اصطلاح
 ہندس میں وہ دو خط جو برابر فاصلے پر ہوں اور دونوں پہلوؤں پر ٹھکانے
 کے باوجود آپس میں تری ملیں اور برابر فاصلے پر رہیں - (انگ ۱)

(Parallel)

مختوازی الاضلاع - ۱۶ - ۱ - نذ، ایک چار اضلاع کی شکل جس کی
 مقابل کی طرف کے ہر دو گوشے ہا ہم متوازی ہوں - (انگ ۱)

(Parallelogram)

مختواضغ - ر.م.ت. - واضغ، ۱۶ - ص. تواضع کرنے والا - عاجزی کرنے والا -
 ۱۲، خاطر و مہارت کرنے والا - ادب و محنت کرنے والا -

مختوال - ر.م.ت. - وال، ۱۶ - ص. متوال -

مختوالا - ر.م.ت. - والا، ۵۶ - ص. مست - مدہوش - نشہ میں چہرہ بخور - مدہاش
 ۱۲، بھانا مغزور گھنٹی ۳، وہ بڑا گل پتھر جو قلعہ کی دیوار پر سے دشمن
 کو دفع کرنے کے واسطے لڑھاکتے ہیں -

مختوالا ہونا - ۱۶ - ص. مرکب - مست ہونا - مدہوش ہونا - نشہ میں
 چور ہونا -

مختوالی - ر.م.ت. - والی، ۵۶ - ص. متوال کی تانیث -

مختوالی - ر.م.ت. - والی، ۱۶ - ص. لگانا، آنے والا - لگانا - پیہم - متواتر -

مختوالی الحركات - ۱۶ - ص. وہ (لفظ) جس کے تین حرف متوال ہوں -
مختوجہ - ر.م.ت. - وجہ، ۱۶ - ص. توجہ کرنے والا - دھیان دینے والا - راغب
 ۱۲، مخاطب (۳) - ہر بلان - فقر غنیات کرنے والا -

مختوجہ ہونا - (۱ - ص. مرکب) - را، توجہ کرنا - دھیان دینا - مخاطب پرنا -
مختوجش - ر.م.ت. - وجہ، ۱۶ - ص. وجہ دہش میں ملنے والا - ۱۲، دخت میں
 پڑنے والا - غیر مالوس (۳) - لغزت کرنے والا -

مختوجع - ر.م.ت. - وجہ، ۱۶ - ص. ہارسا - پرہیز نگار - حاملہ - زاہد -

مختوجم - ر.م.ت. - وجہ، ۱۶ - ص. ورم کرنے والا - سوچنے والا
مختوجا ہوا -

مختورا - ر.م.ت. - ر، ۱۶ - ص. بستر پر موت دینے والا -

مختولک - ر.م.ت. - بک بکن، ۱۶ - ص. جگہ پر ملنے والا - قرار پھیلنے والا -

مختولق - ر.م.ت. - لکن، لکن، ۱۶ - ص. تعلق کرنے والا - خوشامدی - ہاں
 میں ہاں ملانے والا -

مختوم - ر.م.ت. - تم - تم، ۱۶ - ص. تمام کرنے والا - پورا کرنے والا -
مختوم - ر.م.ت. - تم - تم، ۱۶ - ص. تمام کرنے والا - پورا کرنے والا -

مختوتنی - ر.م.ت. - کن - کن، ۱۶ - ص. تمنا کرنے والا - آرزو رکھنے والا -
 خواہش مند -

مختوتوج - ر.م.ت. - توجہ، ۱۶ - ص. توجہ دینے والا - لہریں ماسنے والا -
مختوتول - ر.م.ت. - تول، ۱۶ - ص. مال دار - دولت مند -

مختوتیز - ر.م.ت. - تی، تی، ۱۶ - ص. ایک جگہ ہونے والا - ۱۲، جدا -
مختوق - (۱ - نذ) - م کتاب کی اصلی عبارت - کتاب کے پڑے یا سڑکے کے بیچ کا
 حصہ - ۱۲، درمیان - وسط - درمیانی (۳) - لیست - دم، مضبوط -

مختوقا - ر.م.ت. - نا، ۵۶ - ۱ - نذ، ایک قسم - نیکوئی کی ایک قسم (۱۲) - مص
 مشورہ کرنا - صلاح کرنا - اتفاق کرنا - متفق ہونا -

مختوقا - ر.م.ت. - نا، ۱۶ - ص. متھنا -
مختوقا - ر.م.ت. - نا، ۱۶ - ص. وہ بچہ جسے بستر پر پیشاب کر دینے کی
 عادت ہو -

مختوزاع - ر.م.ت. - نذ، ۱۶ - ص. تنازع کیا گیا - جھگڑا کیا گیا - وہ
 چیز جس پر جھگڑا ہو -

مختوزاع قیہ - ۱۶ - ص. وہ جس میں نزاع ہو -
مختوزاع - ر.م.ت. - نذ، ۱۶ - ص. وہ چیز جس کی بابت جھگڑا ہو -

مختواست - ر.م.ت. - نا، است، ۱۶ - ص. اتنا سب لکھنے والا - ہا ہم
 نسبت رکھنے والا -

مختواقص - ر.م.ت. - نا، قص، ۱۶ - ص. نقص رکھنے والا - ناقص - ناقص
مختواقص - ر.م.ت. - نا، قص، ۱۶ - ص. نقص - مخالف - جگس
 اٹک - خلاف -

مختواہی - ر.م.ت. - نا، ہی، ۱۶ - ص. اتہا کو سنے والا -
مختوبیہ - ر.م.ت. - تہ، ۱۶ - ص. متنبہ کیا گیا - خبردار - آگاہ -
 ہوشیار - چوکس -

مختوبیہ کرنا - ۱۱ - مادہ (۵) آگاہ کرنا - جانا - خبردار کرنا - ہوشیار کرنا -
مختوبی - ۱۱ - ص. مرکب - ر.م.ت. - تہ، ۱۶ - ص. نبوت کا دعوتے کرنا والا -
 ۱۲، نذ، ایک بلند پایہ عرب شاعر کا تخلص -

مختوبین - ر.م.ت. - نب، ۱۶ - ۱ - نذ، ایک قسم کا میٹھا پلاؤ جس میں نیبو کی
 ترشی بھی ڈالی جاتی ہے -

مختوبوع - ر.م.ت. - لوع، ۱۶ - ص. لوع اور قسم کا -
مختوبہ - ۱۶ - ص. عیب سے دور رہنے والا -

مختوبہ - ر.م.ت. - لوع، ۱۶ - ص. لغزت کرنے والا - بے زار
مختوبہ - ر.م.ت. - لوع، ۱۶ - ص. لغزت کرنے والا - بے زار

مُتَوَسِّط - رُم۔ رُت۔ دُوس۔ سِط۔ ۶ع۔ صفت اوسط درجہ کا۔ درمیانی بیچ کا (۲)۔
مُتَوَسِّط - معمولی۔ رسمی۔ رواج۔ جمع۔ متوسلین۔
مُتَوَسِّطُ الْاَمَالِ - ۶ع۔ صفت ۱۔ اوسط درجہ کی حالت والا۔ ۲۔ امیرِ غریب
درمیانی حیثیت کا۔

مُتَوَسِّل - رُم۔ رُت۔ دُوس۔ سِط۔ ۱ع۔ صفت وسیلہ ڈھونڈنے والا۔ وسیلہ
بنانے والا۔ نزدیکی چاہنے والا۔ سبب تلاش کرنے والا (۲)۔ وسیلہ
ہونے والا۔ سرتی۔ جمع۔ متوسلین۔
مُتَوَسِّلٌ - رُم۔ رُت۔ دُظ۔ ظُن۔ ۶ع۔ صفت ۱۔ وطن اختیار کرنے والا۔ رہنے والا۔
باشندہ۔ ساکن۔ مقیم۔

مُتَوَقِّف - رُم۔ رُت۔ دُوق۔ قِی۔ ۱ع۔ صفت ۱۔ وفات پایا ہوا۔ مرا ہوا۔ جہان
سے گھٹنا ہوا۔ جمع۔ متوقفین۔ متوقیان۔
مُتَوَقِّعٌ - رُم۔ رُت۔ دُوق۔ قِی۔ ۱ع۔ صفت ۱۔ توقع رکھنے والا۔ امیدوار۔ اُس
لگانے والا۔ جمع۔ متوقین۔

مُتَوَقِّفٌ - رُم۔ رُت۔ دُوق۔ قِی۔ ۱ع۔ صفت ۱۔ توقف کرنے والا۔ دیر لگانے
والا۔ ٹھہرنے والا۔ جمع۔ متوقفین۔
مُتَوَكِّلٌ - رُم۔ رُت۔ دُوك۔ كِی۔ ۱ع۔ صفت ۱۔ توکل کرنے والا۔ بھروسہ کرنے
والا۔ صابر۔ جمع۔ متوکلین۔

مُتَوَكِّلٌ عَلَى اللّٰهِ - رُم۔ رُت۔ دُوك۔ كِی۔ ۱ع۔ قولہ اللہ پر توکل کر کے۔ خدا پر بھروسہ کر کے۔
مُتَوَكِّلٌ - رُم۔ رُت۔ دُوك۔ كِی۔ ۱ع۔ صفت ۱۔ خدا کے بھروسے پر
متوکل کی مانند۔

مُتَوَلِّدٌ - رُم۔ رُت۔ دُول۔ لَد۔ ۱ع۔ صفت ۱۔ تولد ہونے والا۔ پیدا ہونے والا۔
مُتَوَلِّیٌّ - رُم۔ رُت۔ دُول۔ لَد۔ ۱ع۔ صفت ۱۔ انتظام کرنے والا۔ منتظم۔ منظم۔
مُتَوَلِّیٌّ - رُم۔ رُت۔ دُول۔ لَد۔ ۱ع۔ صفت ۱۔ دوسرا۔ دوسرا۔
مُتَوَلِّیٌّ - رُم۔ رُت۔ دُول۔ لَد۔ ۱ع۔ صفت ۱۔ دوسرا۔ دوسرا۔

مُتَوَلِّیٌّ - رُم۔ رُت۔ دُول۔ لَد۔ ۱ع۔ صفت ۱۔ دوسرا۔ دوسرا۔
مُتَوَلِّیٌّ - رُم۔ رُت۔ دُول۔ لَد۔ ۱ع۔ صفت ۱۔ دوسرا۔ دوسرا۔
مُتَوَلِّیٌّ - رُم۔ رُت۔ دُول۔ لَد۔ ۱ع۔ صفت ۱۔ دوسرا۔ دوسرا۔

مُتَوَلِّیٌّ - رُم۔ رُت۔ دُول۔ لَد۔ ۱ع۔ صفت ۱۔ دوسرا۔ دوسرا۔
مُتَوَلِّیٌّ - رُم۔ رُت۔ دُول۔ لَد۔ ۱ع۔ صفت ۱۔ دوسرا۔ دوسرا۔
مُتَوَلِّیٌّ - رُم۔ رُت۔ دُول۔ لَد۔ ۱ع۔ صفت ۱۔ دوسرا۔ دوسرا۔

مُتَوَلِّیٌّ - رُم۔ رُت۔ دُول۔ لَد۔ ۱ع۔ صفت ۱۔ دوسرا۔ دوسرا۔
مُتَوَلِّیٌّ - رُم۔ رُت۔ دُول۔ لَد۔ ۱ع۔ صفت ۱۔ دوسرا۔ دوسرا۔
مُتَوَلِّیٌّ - رُم۔ رُت۔ دُول۔ لَد۔ ۱ع۔ صفت ۱۔ دوسرا۔ دوسرا۔

مُتَوَلِّیٌّ - رُم۔ رُت۔ دُول۔ لَد۔ ۱ع۔ صفت ۱۔ دوسرا۔ دوسرا۔
مُتَوَلِّیٌّ - رُم۔ رُت۔ دُول۔ لَد۔ ۱ع۔ صفت ۱۔ دوسرا۔ دوسرا۔
مُتَوَلِّیٌّ - رُم۔ رُت۔ دُول۔ لَد۔ ۱ع۔ صفت ۱۔ دوسرا۔ دوسرا۔

مُتَمَتِّعٌ - رُم۔ رُت۔ دُول۔ لَد۔ ۱ع۔ صفت ۱۔ دوسرا۔ دوسرا۔
مُتَمَتِّعٌ - رُم۔ رُت۔ دُول۔ لَد۔ ۱ع۔ صفت ۱۔ دوسرا۔ دوسرا۔
مُتَمَتِّعٌ - رُم۔ رُت۔ دُول۔ لَد۔ ۱ع۔ صفت ۱۔ دوسرا۔ دوسرا۔

مُتَمَتِّعٌ - رُم۔ رُت۔ دُول۔ لَد۔ ۱ع۔ صفت ۱۔ دوسرا۔ دوسرا۔
مُتَمَتِّعٌ - رُم۔ رُت۔ دُول۔ لَد۔ ۱ع۔ صفت ۱۔ دوسرا۔ دوسرا۔
مُتَمَتِّعٌ - رُم۔ رُت۔ دُول۔ لَد۔ ۱ع۔ صفت ۱۔ دوسرا۔ دوسرا۔

مُتَمَتِّعٌ - رُم۔ رُت۔ دُول۔ لَد۔ ۱ع۔ صفت ۱۔ دوسرا۔ دوسرا۔
مُتَمَتِّعٌ - رُم۔ رُت۔ دُول۔ لَد۔ ۱ع۔ صفت ۱۔ دوسرا۔ دوسرا۔
مُتَمَتِّعٌ - رُم۔ رُت۔ دُول۔ لَد۔ ۱ع۔ صفت ۱۔ دوسرا۔ دوسرا۔

مُتَمَتِّعٌ - رُم۔ رُت۔ دُول۔ لَد۔ ۱ع۔ صفت ۱۔ دوسرا۔ دوسرا۔
مُتَمَتِّعٌ - رُم۔ رُت۔ دُول۔ لَد۔ ۱ع۔ صفت ۱۔ دوسرا۔ دوسرا۔
مُتَمَتِّعٌ - رُم۔ رُت۔ دُول۔ لَد۔ ۱ع۔ صفت ۱۔ دوسرا۔ دوسرا۔

م۔ م۔ م۔ م۔

مُطَبَّحٌ - رُم۔ رُت۔ دُول۔ لَد۔ ۱ع۔ صفت ۱۔ دوسرا۔ دوسرا۔
مُطَبَّحٌ - رُم۔ رُت۔ دُول۔ لَد۔ ۱ع۔ صفت ۱۔ دوسرا۔ دوسرا۔
مُطَبَّحٌ - رُم۔ رُت۔ دُول۔ لَد۔ ۱ع۔ صفت ۱۔ دوسرا۔ دوسرا۔

مُطَبَّحٌ - رُم۔ رُت۔ دُول۔ لَد۔ ۱ع۔ صفت ۱۔ دوسرا۔ دوسرا۔
مُطَبَّحٌ - رُم۔ رُت۔ دُول۔ لَد۔ ۱ع۔ صفت ۱۔ دوسرا۔ دوسرا۔
مُطَبَّحٌ - رُم۔ رُت۔ دُول۔ لَد۔ ۱ع۔ صفت ۱۔ دوسرا۔ دوسرا۔

مُطَبَّحٌ - رُم۔ رُت۔ دُول۔ لَد۔ ۱ع۔ صفت ۱۔ دوسرا۔ دوسرا۔
مُطَبَّحٌ - رُم۔ رُت۔ دُول۔ لَد۔ ۱ع۔ صفت ۱۔ دوسرا۔ دوسرا۔
مُطَبَّحٌ - رُم۔ رُت۔ دُول۔ لَد۔ ۱ع۔ صفت ۱۔ دوسرا۔ دوسرا۔

مُطَبَّحٌ - رُم۔ رُت۔ دُول۔ لَد۔ ۱ع۔ صفت ۱۔ دوسرا۔ دوسرا۔
مُطَبَّحٌ - رُم۔ رُت۔ دُول۔ لَد۔ ۱ع۔ صفت ۱۔ دوسرا۔ دوسرا۔
مُطَبَّحٌ - رُم۔ رُت۔ دُول۔ لَد۔ ۱ع۔ صفت ۱۔ دوسرا۔ دوسرا۔

مُطَبَّحٌ - رُم۔ رُت۔ دُول۔ لَد۔ ۱ع۔ صفت ۱۔ دوسرا۔ دوسرا۔
مُطَبَّحٌ - رُم۔ رُت۔ دُول۔ لَد۔ ۱ع۔ صفت ۱۔ دوسرا۔ دوسرا۔
مُطَبَّحٌ - رُم۔ رُت۔ دُول۔ لَد۔ ۱ع۔ صفت ۱۔ دوسرا۔ دوسرا۔

ہے اور کسی سے بات نہ کرے، گھٹا آدمی، وہ شخص جو اپنے دل کا حال کسی سے نہ کہے۔
 مٹھولا، (م۔ٹھولا، ۵)۔ (مذ۔ حلق۔ مشت زنی۔ ہتھرس۔
 مٹھولے لگانا۔ (۱۷)۔ محاورہ) بلی لگانا۔ ہتھرس مٹھ مارنا۔
 مٹھی، (مٹھی، ۵)۔ (مذ۔ مٹھ) بچوں کا پیار۔ بوسہ (۲)۔ مٹھی رن،
 مٹھی۔ (مٹھی، ۵)۔ (مذ۔ مٹھ) قبضہ۔ جھگڑا، مٹی رس، ایک
 مشت کے برابر مقدار۔ لب بھر دم، گرت۔ بکڑا (۵)۔ بند ہاتھ کی
 مقدار جو اپنے میں آتی ہے (۱۶)۔ ماش رے، وہ مٹھی بھر غلہ جو خیرات کے
 لیے نکالتے ہیں۔
 مٹھی بھر۔ (۱-۵)۔ (مذ۔ لب بھر۔ ایک مشت مقدار کے برابر۔
 مٹھی رٹھکھیاں، بھرتا۔ چینی کرنا۔ باقوں دہانا۔ ماش کرنا۔
 مٹھی گرم کرنا۔ (۱۷)۔ محاورہ) رشوت دینا۔ مٹھ بھرنی دینا۔ کسی کے ہاتھ میں
 نقدی دینا (۲)۔ نانا نر نامہ اٹھانا۔
 مٹھی مٹھی۔ (۱۶)۔ (مذ۔ مٹھی) مٹھی بھر۔ لب بھر۔
 مٹھی ملنا۔ (۱۷)۔ محاورہ) رشوت پہنچانا۔
 مٹھی میں۔ (۱۶)۔ (مذ۔ مٹھی) مٹھی میں۔
 مٹھی میں دھرا ہونا۔ (۱۷)۔ محاورہ) پاس موجود ہونا۔
 مٹھی میں دینا۔ (۱۷)۔ محاورہ) کسی کے ہاتھ میں دینا۔
 مٹھی میں طاق ہونا۔ (۱۷)۔ محاورہ) استخارہ میں قاعدہ ہے اگر طاق ہوتا ہے
 کام کی اجازت ہوتی ہے۔
 مٹھی میں بولا بند کرنا۔ (۱۷)۔ محاورہ) ناممکن کام کرنے کا خیال یا ارادہ کرنا۔
 مٹھی میں ہونا۔ (۱۷)۔ محاورہ) قابو میں ہونا۔ قبضہ میں ہونا۔ اختیار میں ہونا۔
 مٹھی یا (مٹھی، ۵)۔ (مذ۔ مٹھی) مٹھی کی کوٹھ (۲)۔ مکان کی وہ جگہ جہاں ہاتھ
 رہتا ہے (۳)۔ قبضہ۔ موٹو دم، گرد کی پٹی (۵)۔ ایک قسم کا زیور جو گل
 پر ہوتا ہے اور اس میں گوہر لگا کر باندھتے ہیں۔
 مٹھی قلم۔ چھوٹا قلم جو مٹھی سے چھوٹا ہوتا ہے۔
 مٹھی یا مٹھی۔ (۱۷)۔ (مذ۔ مٹھی) ہاتھ میں پکڑنا۔ بلیں کا موٹھ کرنا (۲)۔ قبضہ میں
 رانا۔ مٹھی میں لینا۔ مٹھی یا (۳)۔ (مذ۔ مٹھی) لگانا۔
 مٹھی (مٹھی، ۵)۔ (مذ۔ مٹھی) زمین۔ دھرتی (۲)۔ گیلی مٹی۔ کیچڑ (۳)۔ خاک
 دھول (۴)۔ دنیا۔ سنسار۔ کرہ زمین (۵)۔ ریت۔ ریگ (۶)۔ راکھ
 مٹھی یا مٹھی۔ (۱۷)۔ (مذ۔ مٹھی) خیر۔ سرشت۔ مادہ۔
 مٹھی اکھنڈا۔ (۱۷)۔ محاورہ) مرنا۔ فوت ہونا۔
 مٹھی اڑانا۔ (۱۷)۔ محاورہ) خاک اڑانا۔ بار بار اُٹنا جانا۔
 مٹھی برباد کرنا۔ (۱۷)۔ محاورہ) میت کو رسوا کرنا۔ کسی کو رسوا کرنا۔ ذلیل و
 خوار کرنا۔ بدنام کرنا۔
 مٹھی پڑنا۔ (۱۷)۔ محاورہ) میت کا قبر میں دفن ہونا (۲)۔ جھگڑے یا
 تنازعہ کا ختم ہونا۔
 مٹھی کھڑنا۔ (۱۷)۔ محاورہ) مگر بکڑنا۔ جھج جھج جھج کرنا۔
 مٹھی پھڑے سونا۔ ہوسا ہے۔ (۱۷)۔ (مذ۔ مٹھی) ایسا صاحب اقبال ہے کہ مٹھی

برہمی ہاتھ ڈالتا ہے تو وہ سونے کی طرح فائدہ دیتی ہے۔
 مٹھی پلید کرنا۔ ذلیل و رسوا کرنا۔ برباد کرنا۔ درگت بنانا (۲)۔ ستانا۔ دن
 کرنا۔ ہنسی اڑانا۔
 مٹھی پلید ہونا۔ مٹھی خراب ہونا۔ مٹھی خمار ہونا۔ (۱۷)۔ محاورہ) ذلیل ہونا
 بے عزت ہونا۔ برباد ہونا۔ نہایت دکھ میں ہونا۔
 مٹھی تھوکتا۔ (۱۷)۔ محاورہ) کسی چیز پر مٹھی لگانا۔ پست کرنا۔ کھنگل کرنا۔
 مٹھی ٹھکانے لگانا۔ (۱۷)۔ محاورہ) اچھی طرح کفن و دفن کرنا۔
 مٹھی ٹھکانے لگانا۔ (۱۷)۔ محاورہ) اچھی طرح کفن و دفن ہونا۔ مردے کی تمجید و تعظیم
 حسب قاعدہ سر انجام پانا۔
 مٹھی خراب رہنا۔ (۱۷)۔ محاورہ) پریشان رہنا۔ سرگرداں رہنا۔
 مٹھی خراب کرنا۔ (۱۷)۔ محاورہ) (۱)۔ مردے کی تجسیم و تکفین اچھی
 طرح نہ کرنا (۲)۔ رسوا کرنا۔ ذلیل کرنا۔ بدنام کرنا (۳)۔ ستانا۔ تکلیف
 دینا۔ حیران کرنا (۴)۔ (مذ۔ مٹھی) ہنسی اڑانا (۵)۔ برباد کرنا۔ تباہ کرنا۔
 ستیاناں کرنا۔
 مٹھی خراب۔ (۱۷)۔ (مذ۔ ۱)۔ برباد۔ (۲)۔ تباہی۔ (۳)۔ ستیاناں (۴)۔ بے عزتی۔
 ذلت۔ (۵)۔ رسوائی۔
 مٹھی خراب ہونا۔ (۱۷)۔ محاورہ) میت کا اچھی طرح نہ اٹھایا جانا (۲)۔ بدنام ہونا۔
 خوار ہونا۔ ذلیل ہونا۔ رسوا ہونا (۳)۔ درگت بننا۔ برباد ہونا (۴)۔ دن ہونا۔
 حیران ہونا (۵)۔ تباہ ہونا۔ برباد ہونا (۶)۔ ادارہ ہونا۔ پریشان ہونا۔ بے تدبیر
 ہونا۔ بے قدری ہونا۔
 مٹھی دینا۔ (۱۷)۔ محاورہ) دفن کرنا۔ دفنانا۔ قبر میں گاڑنا۔ میت کے دفن ہونے کے
 بعد قبر پر تھوڑی تھوڑی مٹھی ڈالنا۔
 مٹھی ڈالنا۔ (۱۷)۔ محاورہ) خاک ڈالنا (۲)۔ چھپانا۔ پردہ پوشی کرنا (۳)۔ لعنت بھیجنا
 ڈالنا۔ مٹھی ڈالنا۔ (۱۷)۔ محاورہ) درگت کرنا۔
 مٹھی ڈالنا۔ (۱۷)۔ محاورہ) جب کسی کی کوئی چیز چوری ہو جاتی ہے تو مشتہارہ
 سے کسی خاص جگہ پر مٹھی ڈالواتے ہیں تاکہ پھر مال کو وہاں ڈال دے یا اس طرح
 اس کا پردہ ڈھکا ہے۔
 مٹھی ڈھونڈنا۔ (۱۷)۔ محاورہ) مٹی اٹھانے کی مزدوری کرنا۔ قتل کا کام کرنا (۲)۔ سخت
 مصیبت اٹھانا۔ بے لطف کام کرنا۔
 مٹھی ڈھونڈنا۔ (۱۷)۔ محاورہ) بدن قابو میں نہ رہنا۔ جسم کا گوشت مرجانا۔ جسم
 کی سکت جلتے رہنا (۲)۔ مرنے کے دن قریب آ جانا۔
 مٹھی سے مٹھی مل جانا۔ (۱۷)۔ محاورہ) میت کا دفن ہو جانا۔ بیوند خاک
 ہو جانا۔
 مٹھی عزیز کرنا۔ (۱۷)۔ محاورہ) مٹی ٹھکانے لگانا۔ مردے کے دفن میں شریک ہونا۔
 لینے یا تمسوں سے دفن کرنا، گاڑنا، ڈالنا۔
 مٹھی کا سٹلا۔ (۱۷)۔ (مذ۔ خاک) جسم دھماڑا، انسان۔
 مٹھی کا پتھر۔ (۱۷)۔ (مذ۔ خاک) قالب۔ خاک جسم۔
 مٹھی کا مٹھا۔ (۱۷)۔ (مذ۔ مٹھا) کم عقل بنانا۔
 مٹھی کا تیل۔ (۱۷)۔ (مذ۔ ایک قسم کا زیور یا تیل جو زمین سے نکلتا ہے اور لیمپ

مٹیا۔ رمت۔ یا، (۵۔ رمت) مٹی کا چھوٹا برتن جس میں دودھ، دہی، گھی وغیرہ رکھتے ہیں۔
 مٹییار۔ رمت۔ یا، (۵۔ صف) مٹی کا۔ مٹی کے رنگ کا بھورا، گدلا، پتھر (۱۳) پتھر، بھون عورت۔
 مٹیسال۔ رمت۔ یا، (۵۔ مذ) گڑھا جس سے مٹی کھودی جائے۔
 مٹیا اللہ۔ رمت۔ یا، (۵۔ صف) مٹی کا بنا ہوا، (۲) مٹی کے رنگ کا بھورا، (۳) مٹی میں بھرا ہوا۔ مٹی میں لٹھا ہوا۔
 مٹیا نا۔ رمت۔ یا، (۵۔ مص) سن کر طال جانا۔ مکرین کرنا۔ چپ سار ہونا، (۲) درگزر کرنا۔ (۳) چراغ گل ہو جانا، (۴) مٹی سے ملنا۔
 مٹی مل کر صاف کرنا، (۵) مٹی کا پلستر کرنا، (۶) مٹی ہو جانا، (۷) ہموار ہو جانا۔

م۔ث

مٹشاب۔ رمت۔ یا، (۵۔ صف) ثواب دیا گیا۔ اجر کے لائق۔ ثواب کے قابل۔ لائق۔
 مٹشال۔ رمت۔ یا، (۵۔ صف) نظیر نسل۔ مانند، (۲) تصویر صورت۔ نمونہ۔
 مٹشال دینا۔ (۱۱۔ محاورہ) تشبیہ دینا۔ مشابہت ظاہر کرنا۔ نظیر دینا۔
 مٹشالی۔ رمت۔ یا، (۵۔ صف) نمونے کا۔
 مٹشانہ۔ رمت۔ یا، (۵۔ صف) جسم کے اندر مٹشاب کی کھلی۔
 مٹشکت۔ رمت۔ یا، (۵۔ صف) ثابت کیا گیا۔ قائم کیا گیا۔ ساکن کیا گیا۔
 جو منفی نہ ہو جس میں نکل کا ہونا چاہئے، (۲) لکھا گیا۔
 مٹشکت۔ رمت۔ یا، (۵۔ صف) ثابت کرنے والا۔ تصدیق کرنے والا۔
 مٹشکت۔ رمت۔ یا، (۵۔ صف) اقراری۔ اثنائی، (۲) مدلل۔
 مٹشکت۔ رمت۔ یا، (۵۔ صف) ثابت۔ ثابت۔ (۲) رمت۔ یا، (۵۔ صف) ثابت شدہ۔ مقرر شدہ، (۲) تصدیق کیا، (۳) لکھا، (۴) ہوا، (۵) مہر لگا ہوا، (۶) مٹشاب لگا ہوا۔ نشان لگا ہوا۔
 مٹشکت۔ رمت۔ یا، (۵۔ صف) مٹشاب کاغذ جس پر اشام لگایا گیا ہو۔ مہر کیا گیا ہو۔
 مٹشقال۔ رمت۔ یا، (۵۔ صف) سارے چار ماشر ذلک، (۲) سونے کا ایک سکہ جو عرب میں رائج ہے۔
 مٹشل۔ رمت۔ یا، (۵۔ صف) کہاوت۔ مثال، (۲) کہانی۔ داستان۔
 مٹشل۔ رمت۔ یا، (۵۔ صف) ماشر۔ موافق۔ جیسا۔ ملتا ہوا، (۲) شکل۔ یکساں۔
 مٹشلا۔ رمت۔ یا، (۵۔ صف) نظیر۔ ویسا ہی۔ دیکھیے مسل۔
 مٹشلا۔ رمت۔ یا، (۵۔ صف) لائق۔ لائق۔
 مٹشلا۔ رمت۔ یا، (۵۔ صف) لائق۔ لائق۔
 مٹشلا۔ رمت۔ یا، (۵۔ صف) لائق۔ لائق۔
 مٹشلا۔ رمت۔ یا، (۵۔ صف) لائق۔ لائق۔

مٹی کا عطر۔ (۱۱۔ مذ) ایک قسم کا عطر جس کا جزو اعظم مٹائی یا پتھرول مٹی کا پھینچ لانا۔ (۱۱۔ محاورہ) قضا کا اس جگہ لانا۔ جہاں کی مٹی کا کھڑا ہو۔
 مٹی کا کھڑا بھی ٹھونک سجا کر لیتے ہیں۔ (۱۷۔ مثل) ادنیٰ چیز بھی دیکھ بھال کر لینی چاہئے۔ معمولی کام بھی خوب سوچ سمجھ کر لانا۔ احتیاط سے کرنا چاہئے۔
 مٹی کا ملاحو۔ (۱۷۔ مذ) اٹنی بے خوف۔
 مٹی کرنا۔ (۱۱۔ محاورہ) خاک میں ملانا۔ مٹی کی طرح لے قدر کرنا۔ خراب کرنا۔
 بگاڑنا، (۲) مٹی کے رنگ کا کرنا۔ میلا کرنا، (۳) نیلے لطف کرنا۔ کھانا ٹھنڈا کر دینا، (۴) برباد کرنا۔ ٹٹانا۔
 مٹی کی مورت۔ (۱۳۔ رمت) مٹی کا بنا ہوا پتلا، (۲) کنا پتلا، جس میں شوخی نہ ہو۔
 مٹی کے برابر۔ (۱۳۔ صف) نہایت بے عزت۔ کمال بے وقعت۔
 مٹی کے مولیٰ۔ (۱۱۔ صف) نہایت سستا۔ کوڑیوں کے مولیٰ بیعت ارزاں۔
 مٹی لے ڈالنا۔ (۱۳۔ محاورہ) بار بار آنا جانا۔
 مٹی ماٹنا۔ (۱۱۔ محاورہ) لوگوں سے اپنے ذہن میں شرکت کی تمنا کرنا۔
 مٹی میں اٹنا۔ (۱۳۔ محاورہ) خاک میں رٹنا۔
 مٹی میں رٹنا۔ (۱۳۔ محاورہ) مٹائی مٹی میں رٹنا۔
 مٹی میں لوٹنا۔ (۱۱۔ محاورہ) خاک میں رٹنا۔
 مٹی میں مٹی ملانا۔ (۱۱۔ محاورہ) ذہن کرنا۔ ٹٹانا۔ ناپید کرنا۔
 مٹی میں مل جانا۔ (۱۱۔ محاورہ) خاک میں مل جانا، (۲) جسم کا خاک ہو جانا، (۳) بگاڑنا۔ خراب ہو جانا۔
 مٹی میں ملانا۔ (۱۱۔ محاورہ) خاک میں ملانا۔ ستانا۔ ناپید کرنا۔ بے نشان کرنا، (۳) ذہن کرنا، (۴) مٹی سے لطف کرنا، (۵) ضائع کرنا۔
 گٹنا۔
 مٹی ہو جانا، (۲) ہونا، (۱۱۔ محاورہ) خاک میں مل جانا۔ خاک ہو جانا، (۲) بگاڑنا۔
 بوسیدہ ہو جانا۔ ٹٹا ہو جانا، (۳) بے رونق ہو جانا۔ ماند ہو جانا، (۴) مرہ دل ہو جانا۔ (۵) خراب جانا۔ شرمندہ ہو جانا، (۶) کھانے کا ٹھنڈا ہو کر بے لطف ہو جانا، (۷) ذہن ہونا۔
 مٹیا۔ رمت۔ یا، (۵۔ صف) مٹی کے رنگ کا، (۲) کچی مٹی کی زمین۔
 مٹیا پھوس۔ (۱۱۔ صف) نہایت بڑھا اور ناتواں جس کی مٹی یعنی جسم چھوس کر طرح ہو گیا ہو۔
 مٹیا سانپ۔ (۱۱۔ مذ) بھروسے رنگ کا سانپ جس پر کالی پتیاں ہوتی ہیں۔
 مٹیا مٹل۔ (۱۱۔ صف) کچی مٹی کا بنا ہوا محل، (۲) دہلی کے ایک محل کا نام

م-ج

خطوط مستقیم سے گھری ہوئی، جو تین ضلعوں کی جیسے Δ ، وہ، وہ نظم جس کے ہر بند میں تین مصرعے ہوں، وہ علم جس میں مثلث بنا کر سطح کی پیمائش کی جاتی ہے (۵)، زاویوں کی پیمائش کا علم (۹)، علم عروض کے ایک وزن کا نام جس میں تین رکن ہوتے ہیں۔ (۷) ایک خوشبو کا نام جس کے سرگوشہ قرص ہوتے ہیں، ایک قسم کا ٹونڈ جس میں سہ در سر خانے ہوتے ہیں۔

مثلث حادۃ الزاویہ - (ع-۱-۱) مذمذہ مثلث جس کا زاویہ قائمہ سے کم ہو۔

مثلث قائم الزاویہ - (ع-۱-۱) مذمذہ مثلث جس کا ایک زاویہ قائمہ ہو۔

مثلث متساوی الاضلاع - (ع-۱-۱) مذمذہ مثلث جس کے سبب ضلعے آپس میں برابر ہوں۔

مثلث متساوی الساقین - (ع-۱-۱) مذمذہ مثلث جس کے دو ضلعے آپس میں برابر ہوں۔

مثلث مختلف الاضلاع - (ع-۱-۱) مذمذہ مثلث جس کے تینوں ضلعے برابر نہ ہوں۔

مثلث منفرجۃ الزاویہ - (ع-۱-۱) مذمذہ مثلث جس کا ایک زاویہ قائمہ سے بڑا ہو۔

مشاشی - (م-ث-۱) ن-۱) ع-۱) صفت کونا-کونا، کھوٹا۔

مشتمل - (م-ث-۱) ن-۱) ع-۱) صفت کان اور ناک کا مشا۔

مشکل - (م-ث-۱) ن-۱) ع-۱) جمع - مشکل، یعنی مش۔

مشتمل - (م-ث-۱) ن-۱) ع-۱) صفت شمر دار - پھل دار (۲) فائدہ دینے والا تیسرے قسم کا۔

مشتمل - (م-ث-۱) ن-۱) ع-۱) صفت ہشت پہلو - آٹھ ضلعوں کا (۲) آٹھ ضلعوں کی شکل (۳) اصطلاح عروض میں ایک وزن جس میں آٹھ رکن ہوتے ہیں۔

مشتمل - (م-ث-۱) ن-۱) ع-۱) صفت افرار و دولت (۲) بے ترتیب - لاتعداد۔

مشتمل - (م-ث-۱) ن-۱) ع-۱) صفت دوہرے شکر والا (۲) ہیئت (۳) ریت و گانا (۴) آہستہ کے علاوہ بیرونی کی ایک کتاب۔

مشتمل - (م-ث-۱) ن-۱) ع-۱) صفت دو سر (۲) نقل مطابق اصل۔

مشتمل - (م-ث-۱) ن-۱) ع-۱) صفت دو سر (۲) نقل مطابق اصل۔

مشتمل - (م-ث-۱) ن-۱) ع-۱) صفت دو سر (۲) نقل مطابق اصل۔

مخاب - (ع-۱) مضبوط (جواب دیا گیا، منظور کیا گیا)۔
مخاب اللغوات - (ع-۱) مذمذہ شخص جس کی دعائیں قبول کی گئی ہوں۔

مخادول - (م-ث-۱) ن-۱) ع-۱) صفت لڑنے والا، جھگڑنے والا۔

مخادولہ - (م-ث-۱) ن-۱) ع-۱) صفت لڑائی، جنگ - ہنگامہ - خوں ریزی (۲) جھگڑا - بکھیرا - تنازع (۳) دشمنی - عداوت - خصومت (۴) محبت - تکرار - مباحثہ۔

مخادیب - (م-ث-۱) ن-۱) ع-۱) صفت جمع ہے مجذوب کی - دیوانے - مجنون الخواس۔

مخاری - (م-ث-۱) ن-۱) ع-۱) صفت جاری ہونے کے مقامات - مجرئی کی بیج۔

مخاریہ - (م-ث-۱) ن-۱) ع-۱) صفت قانون، جاری شدہ - رواں شدہ سپاس شدہ - رواں - مروجہ - نافذہ۔

مخارتہ - (م-ث-۱) ن-۱) ع-۱) صفت راہ گزرنے کی جگہ (۲) تحقیق کے برعکس۔

مخاربتہ - (م-ث-۱) ن-۱) ع-۱) صفت کسی کلمہ کے غیر حقیقی معنی اصلی معنوں کی مناسبت کے ساتھ جیسے مٹی کے اصلی معنی خاک اور مجازی معنی موت (۳) باختیار - اختیار دیا گیا۔

مخارز - (ع-۱) تابع فعل (قرضاً - مراداً (۲) حسب قانون (۳) از روئے شرع - شرعاً۔

مخارز سماعیت - (ع-۱) صفت سننے اور منظور کرنے والا - قانون میں وہ حاکم جسے کسی مقدمہ کی سماعت کا اختیار ہو۔

مخارز مرسل - (ع-۱) صفت علم بیان میں صفت بیان سے مراد ہے جس میں سب سے سبب سے سبب تک سے جڑو - لازم سے مفردم - ذکر سے صاحب ذکر اور طرف سے مفردات مراد لیے جا سکتے ہیں۔

مخارز ہونا - (ع-۱) صفت کسی امر کا از روئے شرع یا قانون اختیار رکھنا۔

مخارزی - (م-ث-۱) ن-۱) ع-۱) صفت غیر حقیقی غیر اصلی (۲) فرض کیا یا فرضی مراد (۳) نقلی جعلی مصنوعی۔

مخال - (م-ث-۱) ن-۱) ع-۱) صفت طاقت - قدرت - بساط - حوصلہ - مقدر - پس - قائلہ۔

مخال رکھنا - (ع-۱) صفت کسی بات کی قدرت رکھنا - کسی کام کی تاب و طاقت رکھنا۔

مخالس - (ع-۱) صفت مجلس کی جمع - بیٹھنے کی جگہیں - مجلسیں - محفلیں - سہائیں - سوسائٹیاں۔

مخالستہ - (م-ث-۱) ن-۱) ع-۱) صفت باہم مل کر بیٹھنا - مل جل کر بیٹھنا - ہم نشینی۔

منصب ماردر باری (۳)، مرتبہ نکل (۴)، وصولی۔
مجرمان (ع-۱) مد (۱) دیکھیے مجرمانی (۲)، ناپسندے گانے والا۔ مجرم گانے والا (۳)، سلام کرنے والا۔

مجرم - رَم - مجرم، ریب (ع) - صفت (ع) تجربہ کرنے والا۔ آزمائے والا۔
مجرمات - (ع-۱) مد (۱) تجربہ کی، بونی اذکیات، آزمائے ہوئے نئے ۲، وہ کتاب یا بیاض جن میں ان دوا نیوں کے نئے درج ہوں۔

مجرم - رَم - مجرم، ریب (ع) صفت (ع) تجربہ کیا ہوا۔ اکتایا ہوا۔ آزمودہ۔ موثر۔
مجرم - رَم - مجرم، ریب (ع) صفت (ع) تجربہ کیا ہوا۔ اکتایا ہوا۔ آزمودہ۔ موثر۔
 سے پاک ہو (۳)، بن بیا ہوا۔ غیر شادی شدہ۔ ناکتھا۔ بغیر بوی بچوں والا (۴)، وہ شخص جو دنیا سے الگ ہو گیا ہو۔ سنیاسی تارک الدنیا (۵)، وہ شخص جو مادہ سے پاک ہو۔

مجرم رہنا - (۱) محاورہ (۱) آنا اور رہنا۔ اکیلا رہنا۔ بن بیا ہونا رہنا شادی نہ کرنا۔

مجرم سب سے علیٰ جنس کے لڑکانہ بالا (۱) - (۱) مثل (ع) جھڑا
مجرم سب سے علیٰ جنس کے ستم نہ سالا (۱) آدمی سب سے اچھے جس کو کسی کا غم نہ فکر۔

مجرمات - رَم - مجرم، ریب (ع) - صفت (ع) مجرم کی جمع۔ غیر جہانی وجود۔
مجرم - رَم - مجرم، ریب (ع) - صفت (ع) مجرم کی جمع۔ غیر جہانی وجود۔

مجرم - رَم - مجرم، ریب (ع) - صفت (ع) مجرم کی جمع۔ غیر جہانی وجود۔
مجرم - رَم - مجرم، ریب (ع) - صفت (ع) مجرم کی جمع۔ غیر جہانی وجود۔

مجرم - رَم - مجرم، ریب (ع) - صفت (ع) مجرم کی جمع۔ غیر جہانی وجود۔
مجرم - رَم - مجرم، ریب (ع) - صفت (ع) مجرم کی جمع۔ غیر جہانی وجود۔

مجرم - رَم - مجرم، ریب (ع) - صفت (ع) مجرم کی جمع۔ غیر جہانی وجود۔
مجرم - رَم - مجرم، ریب (ع) - صفت (ع) مجرم کی جمع۔ غیر جہانی وجود۔

مجرم - رَم - مجرم، ریب (ع) - صفت (ع) مجرم کی جمع۔ غیر جہانی وجود۔
مجرم - رَم - مجرم، ریب (ع) - صفت (ع) مجرم کی جمع۔ غیر جہانی وجود۔

مجرم - رَم - مجرم، ریب (ع) - صفت (ع) مجرم کی جمع۔ غیر جہانی وجود۔
مجرم - رَم - مجرم، ریب (ع) - صفت (ع) مجرم کی جمع۔ غیر جہانی وجود۔

مجرم - رَم - مجرم، ریب (ع) - صفت (ع) مجرم کی جمع۔ غیر جہانی وجود۔
مجرم - رَم - مجرم، ریب (ع) - صفت (ع) مجرم کی جمع۔ غیر جہانی وجود۔

مجرم - رَم - مجرم، ریب (ع) - صفت (ع) مجرم کی جمع۔ غیر جہانی وجود۔
مجرم - رَم - مجرم، ریب (ع) - صفت (ع) مجرم کی جمع۔ غیر جہانی وجود۔

مجرم - رَم - مجرم، ریب (ع) - صفت (ع) مجرم کی جمع۔ غیر جہانی وجود۔
مجرم - رَم - مجرم، ریب (ع) - صفت (ع) مجرم کی جمع۔ غیر جہانی وجود۔

مجرم - رَم - مجرم، ریب (ع) - صفت (ع) مجرم کی جمع۔ غیر جہانی وجود۔
مجرم - رَم - مجرم، ریب (ع) - صفت (ع) مجرم کی جمع۔ غیر جہانی وجود۔

مجرم - رَم - مجرم، ریب (ع) - صفت (ع) مجرم کی جمع۔ غیر جہانی وجود۔
مجرم - رَم - مجرم، ریب (ع) - صفت (ع) مجرم کی جمع۔ غیر جہانی وجود۔

عالی شان، پرتشوہ، شاندار، بادقار، شانہ۔
مجسمہ - رَم - مجسم، ریب (ع) - صفت (ع) جسم دار۔ وہ چیز جس میں طول و عرض اور عمق ہو۔ اسطرح (۲) سب سے پائوں تک۔ سراپا۔

مجسمات - رَم - مجسم، ریب (ع) - صفت (ع) جسم دار۔ وہ اجسام جن میں طول عرض اور عمق پایا جاتا ہے۔

مجسمہ - رَم - مجسم، ریب (ع) - صفت (ع) جسم دار۔ وہ اجسام جن میں طول عرض اور عمق پایا جاتا ہے۔

مجسمہ سازی - (ع-۱) ف - (۱) - صفت (ع) - مجسمہ سازی۔
مجسمہ سازی - (ع-۱) ف - (۱) - صفت (ع) - مجسمہ سازی۔

مجسمہ سازی - (ع-۱) ف - (۱) - صفت (ع) - مجسمہ سازی۔
مجسمہ سازی - (ع-۱) ف - (۱) - صفت (ع) - مجسمہ سازی۔

مجسمہ سازی - (ع-۱) ف - (۱) - صفت (ع) - مجسمہ سازی۔
مجسمہ سازی - (ع-۱) ف - (۱) - صفت (ع) - مجسمہ سازی۔

مجسمہ سازی - (ع-۱) ف - (۱) - صفت (ع) - مجسمہ سازی۔
مجسمہ سازی - (ع-۱) ف - (۱) - صفت (ع) - مجسمہ سازی۔

مجسمہ سازی - (ع-۱) ف - (۱) - صفت (ع) - مجسمہ سازی۔
مجسمہ سازی - (ع-۱) ف - (۱) - صفت (ع) - مجسمہ سازی۔

مجسمہ سازی - (ع-۱) ف - (۱) - صفت (ع) - مجسمہ سازی۔
مجسمہ سازی - (ع-۱) ف - (۱) - صفت (ع) - مجسمہ سازی۔

مجسمہ سازی - (ع-۱) ف - (۱) - صفت (ع) - مجسمہ سازی۔
مجسمہ سازی - (ع-۱) ف - (۱) - صفت (ع) - مجسمہ سازی۔

مجسمہ سازی - (ع-۱) ف - (۱) - صفت (ع) - مجسمہ سازی۔
مجسمہ سازی - (ع-۱) ف - (۱) - صفت (ع) - مجسمہ سازی۔

مجسمہ سازی - (ع-۱) ف - (۱) - صفت (ع) - مجسمہ سازی۔
مجسمہ سازی - (ع-۱) ف - (۱) - صفت (ع) - مجسمہ سازی۔

مجسمہ سازی - (ع-۱) ف - (۱) - صفت (ع) - مجسمہ سازی۔
مجسمہ سازی - (ع-۱) ف - (۱) - صفت (ع) - مجسمہ سازی۔

مجسمہ سازی - (ع-۱) ف - (۱) - صفت (ع) - مجسمہ سازی۔
مجسمہ سازی - (ع-۱) ف - (۱) - صفت (ع) - مجسمہ سازی۔

مجسمہ سازی - (ع-۱) ف - (۱) - صفت (ع) - مجسمہ سازی۔
مجسمہ سازی - (ع-۱) ف - (۱) - صفت (ع) - مجسمہ سازی۔

مجسمہ سازی - (ع-۱) ف - (۱) - صفت (ع) - مجسمہ سازی۔
مجسمہ سازی - (ع-۱) ف - (۱) - صفت (ع) - مجسمہ سازی۔

مجسمہ سازی - (ع-۱) ف - (۱) - صفت (ع) - مجسمہ سازی۔
مجسمہ سازی - (ع-۱) ف - (۱) - صفت (ع) - مجسمہ سازی۔

مجسمہ سازی - (ع-۱) ف - (۱) - صفت (ع) - مجسمہ سازی۔
مجسمہ سازی - (ع-۱) ف - (۱) - صفت (ع) - مجسمہ سازی۔

مجسمہ سازی - (ع-۱) ف - (۱) - صفت (ع) - مجسمہ سازی۔
مجسمہ سازی - (ع-۱) ف - (۱) - صفت (ع) - مجسمہ سازی۔

مجسمہ سازی - (ع-۱) ف - (۱) - صفت (ع) - مجسمہ سازی۔
مجسمہ سازی - (ع-۱) ف - (۱) - صفت (ع) - مجسمہ سازی۔

مجلس کی رونق - (۱۰- صفحہ) مجلس کی رونق برصغیر دالارہ، صفحہ۔
 مجلس محرم ہونا - (۱۱- محاورہ) مجلس میں رونق آنا۔ گر ماگرم بحث ہونا
 بائیں ہونا۔
 مجلس مضامین یا مجلس جس میں ان قرار دادوں پر بحث کی جاتی ہے
 جو اجلاس عام میں پیش کی جانے والی ہوتی ہیں۔
 (انگ) (Subject Committee)
 مجلسی درجہ - (۱۲- معنی) (۱۰- صفحہ) مجلس سے متعلق۔ اول مجلس۔ وہ
 شخص جو شریک مجلس ہے۔
 مجلہ - (۱۳- معنی) (۱۰- صفحہ) رسالہ یا گزین۔
 مجسمہ - (۱۴- معنی) وہ برتن جس میں خوشبو دار چیزیں جلاتے ہیں۔ عود والی۔
 مجمع - (۱۵- معنی) (۱۰- صفحہ) مجلس۔ لوگوں کے مجمع ہونے کی جگہ۔ جلسہ
 (۱۶- معنی) جمع ہونا۔
 مجمع اطلاق - (۱۷- معنی) اچھے اوصاف کا مجموعہ۔
 مجمع البحرین - (۱۸- معنی) وہ جگہ جہاں سمندر یا دو دریا ملتے ہیں
 دو دریاؤں کا ملاپ۔
 مجمع الجزائر - (۱۹- معنی) بہت سے جزیروں کا مجموعہ۔ اسٹے
 جزیرے۔
 مجمع چھتانا - (۲۰- محاورہ) بھیرا کم ہونا۔
 مجمع خلاف قانون - (۲۱- معنی) قانون کے خلاف لوگوں کا اکٹھا ہونا۔
 مجمع خلاف قانون ہنگامہ۔ مجمع ناجائز۔
 مجمع عوام - (۲۲- معنی) عوام لوگوں کی بھیر۔ عوام کا ہجوم۔
 مجمعہ - (۲۳- معنی) (۱۰- صفحہ) مذاکرہ یا طابق۔ سینی۔
 مجمل - (۲۴- معنی) (۱۰- صفحہ) اجمال یا گنا۔ مختصر۔ خلاصہ۔ اختصار۔
 مجمل حساب - (۲۵- معنی) وہ حساب جو تفصیل کے ساتھ نہ ہو
 حساب کا گوشوارہ۔
 مجملہ - (۲۶- معنی) (۱۰- صفحہ) تالیف (۱۰- صفحہ) تالیف کے طور پر مختصر طریقے سے
 کی الجملہ۔ اختصاراً۔
 مجموعہ - (۲۷- معنی) (۱۰- صفحہ) جمع کیا گیا۔ جمع۔ تمام۔ سب۔ میزان۔ کل۔
 مجموعہ - (۲۸- معنی) (۱۰- صفحہ) جمع کیا ہوا۔ اکٹھا کیا ہوا۔ جوڑا (۱۰- صفحہ)
 ذخیرہ۔ خزانہ۔ مخزن۔ کلیات (۱۰- صفحہ) کتابتہ۔ بتدل۔ گنا۔
 مجموعہ تعزیرات پاکستان - قانون کی وہ کتاب جس میں پاکستان
 میں ہونے والے جرائم کے لیے سزائوں کا قانون درج ہے۔
 (انگ) (Pakistan Penal Code)
 مجموعہ تعزیرات ہند - وہ کتاب جس میں انگریزی حکومت نے اہل
 ہند کے لیے سزائوں کے قانون درج کیے تھے۔ انڈین پنل کوڈ کا اردو
 ترجمہ۔
 (Indian Penal Code)
 مجموعہ قوانین - (۲۹- معنی) (۱۰- صفحہ) قانون کا ذخیرہ۔ وہ کتاب جس میں متعدد
 قوانین اکٹھے کیے گئے ہوں
 مجموعہ کلام - (۳۰- معنی) (۱۰- صفحہ) کلام کا ذخیرہ۔ وہ کتاب جس میں کسی

شاعر کی منظومات جمع کر دی گئی ہوں۔
 مجموعہ کا عطر - ایک عطر کا نام جس میں کئی خوشبو یا ت شامل ہوتی ہیں۔
 مجموعی - (۳۱- معنی) (۱۰- صفحہ) تمام۔ یک جا طور پر۔ اجمالی۔
 مجموعی قیمت - (۳۲- معنی) (۱۰- صفحہ) اکٹھی قیمت۔ کل دام۔
 مجنون - (۳۳- معنی) (۱۰- صفحہ) دیوانہ۔ پاگل۔ بڑی۔ سووائی۔ غیبتی۔ بالکل
 (۳۴- معنی) عوامی کا لقب جو بلی کا مانتی تھا۔ عشق کی دلچاسپی کے
 سبب مجنون نام پڑ گیا تھا (۳۵- معنی) شیدا۔ مفتون۔ زلیفقہ۔ ہنہایت
 ڈیلا پٹلا اور گزراؤمی۔ جمع۔ اجماع۔
 مجنون دوری - (۳۶- معنی) (۱۰- صفحہ) جو ہمیشہ پاگل نہ رہے۔ کبھی کبھی
 پاگل ہو جاتا ہو۔
 مجنون کر دینا - (۳۷- محاورہ) دیوانہ بنا دینا۔ پاگل کر دینا۔ غیبتی کر دینا۔
 مجنونوں کو سبلی کا کتا بھی پیا سا - (۳۸- معنی) جس سے محبت ہو اس کی ہر
 چیز اچھی معلوم ہوتی ہے۔
 مجنونیت - (۳۹- معنی) (۱۰- صفحہ) پاگل پن۔ دیوانگی۔
 مجوز - (۴۰- معنی) (۱۰- صفحہ) جوڑا گیا۔ جائز کیا گیا۔
 مجوزہ - (۴۱- معنی) (۱۰- صفحہ) جوڑ کر دینے والے۔ رلنے دینے والا۔ فیصلہ
 دینے والا (۴۲- معنی) جائز رکھنے والا (۴۳- معنی) اصرار کرنے والا۔ مضطر۔
 مجوزان قانون - (۴۴- معنی) (۱۰- صفحہ) قانون بنانے والے۔ واضعین قانون
 قانون بنانے والوں کی جماعت۔
 مجوزہ - (۴۵- معنی) (۱۰- صفحہ) جوڑ کر دینا۔ مقررہ۔ معینہ۔
 مجمع التجوزات۔
 مجوسی - (۴۶- معنی) (۱۰- صفحہ) مجوسی کی جمع۔ آتش پرست۔
 مجوسا - (۴۷- معنی) (۱۰- صفحہ) لکڑی جو چھت کے نیچے کوڑی کرتے ہیں ان کا
 مجوسی۔ (۴۸- معنی) (۱۰- صفحہ) آتش پرست۔ گیزر زوداشت کا پتھر۔
 مجوف - (۴۹- معنی) (۱۰- صفحہ) جوف کیا ہو۔ اندر سے خالی۔
 کھوکھلا۔ بولا۔ خوتھا۔
 مجھ - (۵۰- معنی) (۱۰- صفحہ) ایک کلمہ ہے جو اپنے نفس پر اطلاق کیا جاتا ہے
 جیسے مجھ کو۔
 مجھ سے - (۵۱- معنی) (۱۰- صفحہ) میری ذات سے (۵۲- معنی) مجھ جیسے
 مجھ کو - (۵۳- معنی) (۱۰- صفحہ) میری ذات کو۔
 مجھ کو بیٹے - (۵۴- معنی) (۱۰- صفحہ) میرا ماتم کہے۔ ایک قسم کی قسم ہے۔
 مجھ میں آیا - (۵۵- محاورہ) میں ذمہ دار ہو۔ میں ضامن ہوں
 مجھار - (۵۶- معنی) (۱۰- صفحہ) درمیان۔
 مجھلا - (۵۷- معنی) (۱۰- صفحہ) جھکاؤ بھرا۔ جھمبلا۔
 مجھلہ - (۵۸- معنی) (۱۰- صفحہ) کوئی چیز جو بے وقوفی۔ غفلت یا جہالت ظاہر کرے۔
 مجسول - (۵۹- معنی) (۱۰- صفحہ) معلوم۔ غیر معلوم (۶۰- معنی) وہ فعل جس
 کا قائل معلوم نہ ہو، سبکست۔ کابل۔ آرام طلب۔ کما۔ نکھتو۔
 (۶۱- معنی) (۱۰- صفحہ) معلوم۔
 مجہول مطلق - (۶۲- معنی) (۱۰- صفحہ) سخت جاہل۔

مچھلیاں بڑنا۔ (۱۰۔ محاورہ) موزنش کے باعث ڈنڑوں پر تھاری اگر عضلوں کا آمیزہ آنا۔
مچھنڈر۔ (۱۔ دم۔ چمن۔ دوس۔ ۵)۔ صفی بڑی بڑی موٹھوں والا، چوہا۔ موٹھ
 ۱۳، سبز۔ بے سروہ آرمی۔ بد وضع۔ یادہ۔ گر۔ دیوٹ۔
مچھووا۔ (۵۔ ۱۔ مذ) ماہی گیر۔ مچھلیاں پکڑنے والا اور بیچنے والا۔
مچھلیاں لیدنا۔ (۱۰۔ محاورہ) بوسے لینا۔ پیار کرنا۔
مچھلی۔ (مچھلی) (۱۰۔ ۱۔ مذ)۔ ماہی (۲)۔ بوسے اطفال۔ بچی چھوٹا۔
مچھلی بھول۔ (۱۱)۔ بادشاہوں۔ راجاؤں یا امیروں کے محل کا وہ تالاب جس میں مچھلیاں پالی جاتی ہیں، مگھنوں کے ایک مشہور شاہی محل کا نام۔
مچھلے۔ (۱۰۔ ۱۔ مذ)۔ موٹھ۔
مچھیرا۔ (۱۰۔ ۱۔ مذ)۔ مچھلیاں پکڑنے والا۔
مچھلی۔ (۱۰۔ ۱۔ مذ)۔ مچھلیاں پکڑنے والا۔

مچھوانا۔ (۱۰۔ ۱۔ مذ)۔ مصلح۔ مصلح کرنا۔ جیسے نعل مچھانا۔
مچھوانا۔ (۱۰۔ ۱۔ مذ)۔ مصلح۔ مصلح کرنا۔ مندھانا۔
مچھو۔ (۱۰۔ ۱۔ مذ)۔ بڑی مچھلی۔
مچھو راند۔ (۱۰۔ ۱۔ ۵)۔ صفی مچھلی کی بڑ۔
مچھو رنگا۔ (۱۰۔ ۱۔ مذ)۔ ایک آبی پرندہ جو اکثر مچھلیاں پکڑا کرتا ہے۔
رام چڑیا۔
مچھو۔ (۱۰۔ ۱۔ ۵)۔ مچھلیاں پکڑنے والا۔
مچھو۔ (۱۰۔ ۱۔ ۵)۔ مچھلیاں پکڑنے والا۔
مچھو۔ (۱۰۔ ۱۔ ۵)۔ مچھلیاں پکڑنے والا۔

م۔ ج۔

مچھلیاں بڑنا۔ (۱۰۔ ۱۔ ۵)۔ مچھلیاں پکڑنے والا۔
مچھلیاں بڑنا۔ (۱۰۔ ۱۔ ۵)۔ مچھلیاں پکڑنے والا۔
مچھلیاں بڑنا۔ (۱۰۔ ۱۔ ۵)۔ مچھلیاں پکڑنے والا۔
مچھلیاں بڑنا۔ (۱۰۔ ۱۔ ۵)۔ مچھلیاں پکڑنے والا۔
مچھلیاں بڑنا۔ (۱۰۔ ۱۔ ۵)۔ مچھلیاں پکڑنے والا۔
مچھلیاں بڑنا۔ (۱۰۔ ۱۔ ۵)۔ مچھلیاں پکڑنے والا۔
مچھلیاں بڑنا۔ (۱۰۔ ۱۔ ۵)۔ مچھلیاں پکڑنے والا۔
مچھلیاں بڑنا۔ (۱۰۔ ۱۔ ۵)۔ مچھلیاں پکڑنے والا۔
مچھلیاں بڑنا۔ (۱۰۔ ۱۔ ۵)۔ مچھلیاں پکڑنے والا۔
مچھلیاں بڑنا۔ (۱۰۔ ۱۔ ۵)۔ مچھلیاں پکڑنے والا۔
مچھلیاں بڑنا۔ (۱۰۔ ۱۔ ۵)۔ مچھلیاں پکڑنے والا۔
مچھلیاں بڑنا۔ (۱۰۔ ۱۔ ۵)۔ مچھلیاں پکڑنے والا۔
مچھلیاں بڑنا۔ (۱۰۔ ۱۔ ۵)۔ مچھلیاں پکڑنے والا۔
مچھلیاں بڑنا۔ (۱۰۔ ۱۔ ۵)۔ مچھلیاں پکڑنے والا۔
مچھلیاں بڑنا۔ (۱۰۔ ۱۔ ۵)۔ مچھلیاں پکڑنے والا۔
مچھلیاں بڑنا۔ (۱۰۔ ۱۔ ۵)۔ مچھلیاں پکڑنے والا۔

مچھلیاں بڑنا۔ (۱۰۔ ۱۔ ۵)۔ مچھلیاں پکڑنے والا۔
مچھلیاں بڑنا۔ (۱۰۔ ۱۔ ۵)۔ مچھلیاں پکڑنے والا۔
مچھلیاں بڑنا۔ (۱۰۔ ۱۔ ۵)۔ مچھلیاں پکڑنے والا۔
مچھلیاں بڑنا۔ (۱۰۔ ۱۔ ۵)۔ مچھلیاں پکڑنے والا۔
مچھلیاں بڑنا۔ (۱۰۔ ۱۔ ۵)۔ مچھلیاں پکڑنے والا۔
مچھلیاں بڑنا۔ (۱۰۔ ۱۔ ۵)۔ مچھلیاں پکڑنے والا۔
مچھلیاں بڑنا۔ (۱۰۔ ۱۔ ۵)۔ مچھلیاں پکڑنے والا۔
مچھلیاں بڑنا۔ (۱۰۔ ۱۔ ۵)۔ مچھلیاں پکڑنے والا۔
مچھلیاں بڑنا۔ (۱۰۔ ۱۔ ۵)۔ مچھلیاں پکڑنے والا۔
مچھلیاں بڑنا۔ (۱۰۔ ۱۔ ۵)۔ مچھلیاں پکڑنے والا۔
مچھلیاں بڑنا۔ (۱۰۔ ۱۔ ۵)۔ مچھلیاں پکڑنے والا۔
مچھلیاں بڑنا۔ (۱۰۔ ۱۔ ۵)۔ مچھلیاں پکڑنے والا۔
مچھلیاں بڑنا۔ (۱۰۔ ۱۔ ۵)۔ مچھلیاں پکڑنے والا۔
مچھلیاں بڑنا۔ (۱۰۔ ۱۔ ۵)۔ مچھلیاں پکڑنے والا۔
مچھلیاں بڑنا۔ (۱۰۔ ۱۔ ۵)۔ مچھلیاں پکڑنے والا۔

محاسبہ کرنا - ۱۶ - مص مرکب (حساب طلب کرنا - روپیہ کی پوچھ گچھ کرنا - مطالبہ کرنا -
 محاسبہ لینا - ۱۶ - مص مرکب (حساب لینا - پرسش کرنا -
 محاسبین - دم - حاسبین (مع - اہمیت) شخص کی جمع - اچھائیاں - غمبیاں -
 مہلایاں - نیکیاں -
 محاصرہ - دم - حاصرہ (مع - نصف) محاصرہ کرنے والا - گھیرنے والا -
 محاصرہ - دم - حاصرہ (مع - ۱ - مذکر) گھیراؤ والا - چاروں طرف سے بند کر دینا - براہ بندی - قلعہ بندی - احصار -
 محاصرہ اٹھانا - ۱۶ - محاورہ (ناکہ بندی چھوڑ دینا - گھیرا ہٹالینا -
 محاصرہ کرنا - ۱۶ - مص مرکب (چاروں طرف سے گھیر لینا -
 محاصرہ میں آجانا - ۱۶ - محاورہ (ہر طرف سے بھر جانا - قلعہ بند ہو جانا -
 محاصرہ میں - دم - حاصرہ - بین (مع - ۱ - مذکر) محاصرہ کی جمع - گھیراؤ والے والے - محاصرہ کرنے والے -
 محاصرہ - دم - حاصرہ (مع - ۱ - مذکر) محاصرہ کی جمع مگر اردو میں واحد متعلق ہوتا ہے (۱) پیداوار کا محصول - معاملہ - لگان - مال گزاری - خراج - (۲) حاصل آمدنی - نفع - بھل - نتیجہ -
 محاصرہ خام - (مع - ۱ - مذکر) کسی غیر مستقل آمدنی میں سے مال گزاری بھی شامل ہو -
 محاصرہ - (مع - نصف) جو سلسلے کے ہوا ہو -
 محاصرہ گزاری - (مع - ۱ - مذکر) یاد رکھی ہوئی باتیں یا چیزیں - گزری ہوئی کہانیاں بیان کرنا - یعنی علم تاریخ (۲) معلومات -
 محاصرہ - (مع - نصف) گھیرا گیا - احاطہ کیا گیا (۲) سمجھا گیا (۳) مشہور -
 محاصرہ - دم - حاصرہ (مع - نصف) محافظت کرنے والا - گھبائی گزیرا والا -
 محاصرہ - یا سببان (۲) جو کچھ (۲) سرپرست - مہربانی - دلی -
 محاصرہ حقیقی - (مع - ۱ - مذکر) اصلی محافظت کرنے والا - مراد خدا کے لئے -
 محافظ خانہ - (مع - ۱ - مذکر) مکان جس میں فیصلہ شدہ مسلیں اور کاغذات رکھتے ہیں -
 محافظ دفتر - (مع - ۱ - مذکر) نگران دفتر - مسلوں کی محافظت رکھنے والا -
 محافظ مجلس - (مع - ۱ - مذکر) داروغہ - جیل - جیل خانہ کا داروغہ -
 محافظت - دم - حاصرہ - نعت (مع - ۱ - مذکر) حفاظت - پاسانی - رکھوالی (۲) سرپرستی - اہتمام -
 محافظی - دم - حاصرہ - نعت (مع - ۱ - مذکر) مجلس کی جمع - مجلسیں - انجمنیں - مجلسیں -
 محافظہ - دم - حاصرہ (مع - ۱ - مذکر) وہ پردہ دار سواری جس میں عورتیں بیٹھتی ہیں -
 محافظی - دم - حاصرہ - نعت (مع - ۱ - مذکر) ڈولہ - فیض - پاکلی - میانہ -
 محافظی - دم - حاصرہ - نعت (مع - ۱ - مذکر) روشنی کے کنول -
 محافظ - دم - حاصرہ (مع - ۱ - مذکر) لفظ "م" کے زیر زبر اور پیش تینوں

طرح صحیح ہے (۱) چاند گھٹنا (۲) چاند کے گھٹنے کے دن چوبیس روزیں تاریخ سے شروع ہوتے ہیں (۳) ماہ قمری کی آخری تین تاریخیں جن میں چاند نظر نہیں آتا -
 محاق میں آنا - ۱۶ - محاورہ (چاند کا نوال شروع ہونا -
 محاکات - دم - حاصرہ (مع - ۱ - مذکر) باہمی بات چیت - باہمی داستان گوئی (۲) ایک دوسرے سے مشابہ ہونا - کسی چیز یا حالت کی نقل کرنا -
 محاکمہ - دم - حاصرہ (مع - ۱ - مذکر) فیصلہ کرنے والے حاکم کے پاس جانا - انصاف طلبی (۲) دعوے - فیصلہ (۳) منصف بن کر چھوڑا نشانہ - جمع - محاکمات -
 محال - دم - حال (مع - ۱ - مذکر) محل کی جمع مکانات - مقامات - منازل (۲) جائیداد غیر منقولہ - بزرگے - ضلعے - جاگیریں (۳) شہد کی مکھنوں کا چیتہ - آرد میں مغز استعمال ہوتا ہے -
 محال ایکباری - (مع - ۱ - مذکر) شراب کا ٹکڑا -
 محال حضور - (مع - ۱ - مذکر) ایسی جاگیر جس کے مالک کو براہ راست مالگاری خزانہ صدر میں داخل کرنے کی اجازت ہو -
 محال - دم - حال (مع - نصف) غیر ممکن - ہوتی (۲) دشوار - مشکل - کٹھن - جمع - محالات -
 محال مطلق - (مع - نصف) قطعاً ناممکن -
 محالات - دم - حال (مع - نصف) محال کی جمع - ناممکن باتیں - وہ چیزیں جن کا ہونا سنت و شعور ہو - مشکلات - دشواریاں -
 محاورہ - دم - حاصرہ (مع - ۱ - مذکر) محمڈت کی جمع - اچھائیاں - عمدہ اوصاف - نیک خصالتیں -
 محاورات - دم - حاصرہ (مع - ۱ - مذکر) محاورہ کی جمع - باہمی باتیں - آپس کی بول چال -
 محاورہ - دم - حاصرہ (مع - ۱ - مذکر) محاورہ کی جمع - باہمی گفتگو - بول چال - بات چیت - سوال جواب (۲) اصطلاح عام - وہ کلمہ یا کلام جسے اہل زبان نے لغوی معنی کی نسبت یا غیر نسبت سے کسی خاص معنوم کے لیے مخصوص کر لیا ہو (۳) مشق - مہارت -
 محاورہ بڑھانا - ۱۶ - محاورہ (عادت ہو جانا - مشق ہو جانا -
 محاورہ ڈالنا - (مع - ۱ - محاورہ) عادت ڈالنا - مشق کرنا - مہارت پیدا کرنا - محبت - دم - حاصرہ (مع - ۱ - مذکر) محبت کرنے والا - دیار دوست - مشفق - شفیق -
 محبت - دم - حاصرہ (مع - ۱ - مذکر) دوست کی مانند -
 محبت - دم - حاصرہ (مع - ۱ - مذکر) الفت - پیار - چاہ - دوستی -
 محبت - پارازہ (۲) عشق - لگن - بغض غلط ہے -
 محبت آمیز - (مع - نصف) محبت بھرا - پیار سے ملا ہوا - الفت آمیز -
 محبت اچھلنا - (مع - ۱ - محاورہ) محبت کا جوش مارنا - دوستی کا ڈولہ اٹھنا -

محبت (جدا)۔ ۱۶۔ محاورہ) اظہار محبت کرنا۔ اُلفت ظاہر کرنا۔

محبت دل کی، نہیں۔ ۱۶۔ مقولہ) عشق آسان نہیں۔

محبت دلی (قلبی)۔ (ع۔ ۱۶۔ اہمیت بلکہ محبت۔ سچا عشق۔

محبت رکھنا۔ ۱۶۔ محاورہ) دوستی رکھنا۔ چاہنا۔ پیار کرنا۔

محبت کا بھوکا۔ ۱۶۔ صفت) محبت کا آرزو مند۔

محبت کا پھوش۔ ۱۶۔ اہمیت) ولولہ عشق۔

محبت کا دم بھرنا۔ ۱۶۔ محاورہ) اُلفت کا اقرار کرنا۔ عشق ظاہر کرنا

دوستی کا دعویٰ کرنا۔

محبت کرنا۔ ۱۶۔ مص مرکب) چاہنا۔ پیار کرنا۔

محبت سب کی، سب سے برابر محبت۔ صوفیوں کی اصطلاح

ہیں سب کو دوست خیال کرنا۔

محبت کی نظر دکاہ، ڈالنا۔ (ع۔ ۱۶۔ اُلفت کی نگاہ سے دیکھنا۔

نظراتنگاہ کرنا تو میر کی نگاہ کرنا۔

محبت کے مارے سدا محو کسار سے۔ ۱۶۔ مقولہ) عاشق ہمیشہ

تکلیف میں رہتے ہیں۔

محبت نامہ۔ (ع۔ ۱۶۔ ف۔ ۱۶۔ اہمیت) خط یا چٹھی جو کسی عزیز کی طرف سے آئے۔

محبت میں۔ (ع۔ ۱۶۔ اہمیت) قید خانہ۔ زندان۔ جیل خانہ۔

محبوب۔ (ع۔ ۱۶۔ اہمیت) پیار۔ دوست۔ محبت، ۲، مستحق

دلدار۔ منظور نظر۔ دل گرہا۔

محبوب الہی۔ خدا کا پیارا، ۲، حضرت نظام الدین اولیاء کا لقب، جن کا

مزار دہلی میں موضع خاص دعام ہے۔

محبوب خدا (دیکھ لیا)۔ (ع۔ ۱۶۔ اہمیت) پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب۔

محبوبہ۔ (ع۔ ۱۶۔ اہمیت) پیاری۔ معشوقہ۔

محبوبی۔ (ع۔ ۱۶۔ اہمیت) پیارا پن۔ معشوقی۔

محبوبیت۔ (ع۔ ۱۶۔ اہمیت) پیارا ہونا۔ پیارا پن۔

محبوس۔ (ع۔ ۱۶۔ اہمیت) حبس میں رکھا گیا۔ قید میں رکھا گیا۔

اسیر۔ زندانی۔ مقید۔

محتاج۔ (ع۔ ۱۶۔ اہمیت) ضرورت مند۔ حاجت مند۔ طلبکار

خواہش مند (۲، لولا۔ تنگدوست۔ اندھا۔ وہ شخص جس کے کسی عضو

میں نقص ہو گیا)۔

محتاج الیم۔ (ع۔ ۱۶۔ اہمیت) وہ شخص جس کا کوئی دست ٹکڑا ہو۔

محتاج خانہ۔ (ع۔ ۱۶۔ اہمیت) وہ جگہ جہاں غریب اپنا بیچا ادا معذور رکھے

جاتے ہیں وہ مکان جہاں محتاجوں کی پرورش کی جاتی ہے۔

محتاج ہونا۔ ۱۶۔ مص مرکب) حاجت مند ہونا۔ محس ہونا۔ دست نگر

ہونا۔ اپنا بیچ ہونا۔

محتاجی۔ محتاجی۔ (ع۔ ۱۶۔ اہمیت) محتاجی، دست نگر، محتاج ہونا، محتاج ہونے کی حالت۔ ۲، دست نگر کی (۳، مجبوری۔ ناچاری)۔

برتے۔ احمیاط سے چلنے والا، ہوشیار۔

محرز۔ (ع۔ ۱۶۔ اہمیت) اعتراض کرنے والا۔ پرہیز برتنے والا۔

محرز اپنے آپ کو بچانے والا۔ ہوشیار۔ محتاط۔

محرز۔ (ع۔ ۱۶۔ صفت) پیشہ ور۔ اہل حرفہ۔

محرز۔ (ع۔ ۱۶۔ صفت) جلا، جلا ہونے لگا گئی ہو۔

محرزم۔ (ع۔ ۱۶۔ اہمیت) احترام کیا گیا معزز۔ واجب

التعظیم۔ بزرگی۔

محرز۔ (ع۔ ۱۶۔ صفت) محترم کی تہمت۔ قابل تعظیم عورت۔

محتسب۔ (ع۔ ۱۶۔ اہمیت) حساب لینے والا (۲، وہ

ماتم جو خلاف شرع باتوں کی ممانعت کرے۔ حاکم شرعی مفتی

قاضی کو کہتے ہیں۔

محتسب رادروان خانہ حیمہ کار۔ ۱۶۔ مثل) کسی کو دوسرے کے گھر کے

معاہدات میں دخل دینے کا حق نہیں۔

محتشم۔ (ع۔ ۱۶۔ اہمیت) احتشام والا۔ نوکروں چاکروں والا امیر

ادولت مند۔ رئیس۔

محتشش۔ (ع۔ ۱۶۔ صفت) گھبرا ہوا۔ ڈیالاب۔

محتکر۔ (ع۔ ۱۶۔ صفت) غلے کو گرانے کی خاطر بند رکھنے والا سوداگر۔

محتک۔ (ع۔ ۱۶۔ اہمیت) ذخیرہ اندوز۔ انگ (Hourder)

محتکم۔ (ع۔ ۱۶۔ صفت) بسے احتلام ہو جائے۔ جو بس بوقت کی پہنچ جائے۔

محتل۔ (ع۔ ۱۶۔ اہمیت) احتمال کیا گیا۔ شک کیا ہوا

مشکوٰۃ۔ مشتعل۔

محمملات۔ (ع۔ ۱۶۔ اہمیت) شبہات۔

محتوی۔ (ع۔ ۱۶۔ اہمیت) احاطہ کرنے والا۔ گیر لینے والا۔ شامل۔

محتوی۔ (ع۔ ۱۶۔ اہمیت) اجالی دار۔

محبوب۔ (ع۔ ۱۶۔ اہمیت) حجاب کیا ہوا۔ پردہ میں پوشیدہ۔ مخفی

محبوب۔ (ع۔ ۱۶۔ اہمیت) شرمندہ۔ تادم منفعل۔

محبوب۔ (ع۔ ۱۶۔ اہمیت) محسب ہوا۔ اُچھواں۔ جہ دار۔

محبوب شیشہ۔ (ع۔ ۱۶۔ اہمیت) ایک قسم کا گول بیج میں سے اُچھوا

ہوا شیشہ جس کے ذریعے چیزیں بڑی معلوم ہوتی ہیں۔ اُسے

اگر سورج کے سامنے کیا جائے تو سورج کی کرنیں اس میں سے

گزر کر ایک مرکز پر جمع ہوتی ہیں۔ اگر وہاں کوئی نازک چیز

باسیہ کپڑا رکھا ہو تو فوراً جل اُٹھتا ہے۔

محدث۔ (ع۔ ۱۶۔ اہمیت) علم حدیث کا جاننے

والا۔ نقیبہ۔

محدث۔ (ع۔ ۱۶۔ اہمیت) نئی بات نکالنے والا (۲، بے مؤثر

ہو جانے والا۔

محدود۔ (ع۔ ۱۶۔ اہمیت) محدود کیا گیا۔ گھرا۔ احاطہ کیا ہوا۔

محدود دار یاں۔ (ع۔ ۱۶۔ اہمیت) مشترک سرمایہ کی کمپنی کے حصہ

داروں کی ذمہ داری یا وہ ذمہ دار یاں جو ان کے حصص کی نامزد رقم تک

مختری - رنج - پ - ری (ن - ا - مٹ) خفیہ خبر رسائی جاسوسی۔
مخبوط - رنج - بوط (ع - صفت) جنطی - جنون - مجنون - بدخواس - سودائی۔
مخبوط الخواس - دیوانہ - پاگل - سودائی۔
مختار - رنج - تار (ع - صفت) باختیار - آزاد - مجاز (۲) سربراہ
 کار - ولی - سرپرست (۳) گماشتہ - دلیل (م) اختیار دیا گیا
بسند کیا گیا۔
مختار خاص - (ع - ا - مذ) وہ شخص جس کے ذمے کوئی خاص کام کیا
 گیا، سو۔
مختار ریاست - (ع - ا - مذ) ریاست کا منتظم۔
مختار عام - (ع - ا - مذ) وہ گماشتہ جسے ہر بات کے کرنے کا اختیار دیا گیا ہو
 وہ شخص جس کے نام مختار نامہ عام ہو۔
مختار عدالت - (ع - ا - مذ) کچھری کا مختار - پبلک آٹارنی۔
مختار کار - (ع - ا - مذ) کام کرنے کا مجاز - سربراہ کا مہتمم
مختار کرنا - (۱) مجاہدہ اختیار دینا - اجازت دینا - مجاز ٹھہرانا۔
مختار مطلق - (ع - ا - مذ) پورا صاحب اختیار - مکمل با اختیار جسے
 قطعی اختیار حاصل ہو - مارا المہام۔
مختار نامہ - (ع - ف - ا - مذ) وہ تحریر جس کے ذریعے کسی شخص کو
 مختار بنا گیا ہو۔
مختار نامہ خاص - (ع - ف - ا - مذ) کسی خاص کام یا امر
 کی بابت نوشتہ۔
مختار نامہ عام - (ع - ف - ا - مذ) کسی شخص کو عام امور کی نسبت
 مختار کرنے کی تحریر۔
مختار کرنا - (۱) مجاہدہ یا اختیار ہونا - مجاز ہونا۔
مختاری - رنج - تدری (ع - ا - مٹ) سربراہی - مختاری کا پیشہ کام۔
مختاری کرنا - (۱) مجاہدہ (۲) مختاری کا پیشہ کرنا (۳) انجام کرنا۔
مختار - (ع - صفت) مفرد - بیکھر - جو اپنے آپ کو بھگتے سمجھے۔
مختار - رنج - تم (ع - صفت) ختم کیا گیا۔
مختار - رنج - تم (ع - صفت) ختم کرنے والا۔
مختار - رنج - ت - ری (ع - ا - مذ) اختراع کرنے والا یا ایجاد کرنے والا۔
مختار - بات نکالنے والا - موجد واضح - بانی۔
مختار - رنج - بت - ری (ع - صفت) بانی - موجد - ایجاد کرنے والا۔
مختار - رنج - ت - ری (ع - ا - مٹ) وہ چیزیں جو ایجاد
 کی گئی ہوں۔
مختار - رنج - تص (ع - صفت) مخصوص کیا گیا - خاص کیا گیا۔
مختار - رنج - ت - ری (ع - صفت) اختصار - خلاصہ - انتخاب - بھل - تھوڑا
 (۲) چھوٹا جو ذیل نہ ہو۔
مختار سی بات - (ع - ا - مٹ) وہ بات جس میں طوالت نہ ہو۔
مختار طور پر - (۱) تابع فعل (مختار گناہ - اختصار ہے۔
مختار کرنا - (۱) مع مرکب (اختصار کرنا - کم کرنا - گھٹانا - چھانٹنا۔

مختصر - رنج - ت - ری (ع - ف - مٹ) قابل فعل (اختصار کے ساتھ۔
 خلاصہ - خلاصہ کے طور پر۔
مختصر نویس - (ع - ف - صفت) دیکھیے اختصار نویس۔
مختصر نویسی - رنج - ت - ری (ع - صفت) مختار کیا گیا - چھپا ہوا پوشیدہ - خفیہ۔
مختصر - رنج - ت - ری (ع - صفت) بگڑا ہوا - درم - بزم۔
مختصر الخواس - (ع - صفت) خواس ہانتہ - مختوط الخواس - وہ شخص جس کے اوس
 میں فتور آ گیا ہو - فارت العقل۔
مختلط - (ع - صفت) ملا ہوا - گڈ گڈ۔
مختلط - (ع - صفت) اختلاط کرنے والا (۲) نامعلوم - گنم۔
مختلف - رنج - ت - ری (ع - صفت) علیحدہ - مجزا (۲) مخالف (۳) قسم قسم
 کا طرح طرح کا۔
مختلف الاضلاع - (ع - صفت) وہ چکور یا مثلث جس کے اضلاع
 باہلو ایک جیسے نہ ہوں۔
مختلف الطباع - (ع - ف - صفت) قسم قسم کی طبیعتوں کے۔
مختلف العقائد - (ع - صفت) الگ الگ عقیدوں کے۔
مختلف فیہ - (ع - صفت) وہ جس میں اختلاف ہو جیسے کبک کی تذکرہ تائیت
 مختل فیہ ہے - بنیخ لام۔
مختوم - رنج - تو (ع - صفت) مٹھر کیا ہوا - مہر شدہ (۲) بسند کیا
 ہوا - مقفل۔
مختون - رنج - تو (ع - صفت) مٹھر کیا ہوا۔
مختور - رنج - تو (ع - صفت) پردہ میں رکھا ہوا - چھپا ہوا - پردہ
 نشین - پردہ میں بیٹھنے والی - پردہ دار۔
مختور - رنج - تو (ع - صفت) سبے جس و حرکت کر دینے والا - من کر نیوالا۔
 (۲) بند لائے والا۔
مختور رات - رنج - تو (ع - صفت) رات (۱) - مٹ) مختور کی جمع پردہ نشین
 پردہ والیوں۔
مختور رات - رنج - تو (ع - صفت) رات (۱) - مٹ) سُن کر دینے والی دعائیں
 خواب آدو دوائیں۔
مختور - رنج - تو (ع - صفت) خدشہ سے بھرا ہوا - خشک و شبہ کیا ہوا۔
 ڈسوسہ کیا ہوا۔
مختوم - رنج - تو (ع - ا - مذ) خدمت کیا گیا - قابل تعظیم - بزرگ - آقا
 مالک - ولی نعمت - مرقی۔
مختوم - رنج - تو (ع - ا - مٹ) مختوم کی تائیت - خدمت کی
 گئی - معظفہ - محترمہ۔
مختول - (ع - صفت) ذلیل کیا گیا - ذلیل و خوار۔
مختول - (ع - ا - مذ) خانہ کرنے والا - کم۔
مخترب - رنج - تو (ع - صفت) خراب شدہ - بگڑا ہوا۔
مخترب - رنج - تو (ع - صفت) خراب - رنج - تو (ع - ا - مذ) دیران
 کرنے والا - برباد کرنے والا۔

مخزنج (درج: ریح) ۱-۷-۱۷۱۷ (مذ: خازن) ہونے کی جگہ رکھنے کی جگہ - طبع: مصدر

مخزوط (درج: روط) ۱-۷-۱۷۱۷ (مذ: اصل جڑ مادہ) - تراشا ہوا - گھاؤ

مخزوطی (درج: روط) ۱-۷-۱۷۱۷ (مذ: اصل جڑ مادہ) - تراشا ہوا - گھاؤ

مخزوان (درج: زن) ۱-۷-۱۷۱۷ (مذ: مخزوان کی جگہ - خزانہ - گودام - ذخیرہ - سٹور - جمع کرنے کی جگہ)

مخزوان العلوم (درج: زن) ۱-۷-۱۷۱۷ (مذ: ایک قسم کی کتاب جس میں مختلف علوم کا تذکرہ ہو) (انگلیش) (Encyclopedia)

مخضوب (درج: غرض) ۱-۷-۱۷۱۷ (مذ: خاص کیا گیا - نامزد کیا گیا)

مخزوم (درج: ف) ۱-۷-۱۷۱۷ (مذ: جس کی ناک چھدی ہو) ۲-۱۷۱۷ (مذ: عرب کے ایک قبیلے کا نام)

مخزور (درج: صفت) ۱-۷-۱۷۱۷ (مذ: شامل خزانہ - چیز و فینہ)

مخضرم (درج: صفت) ۱-۷-۱۷۱۷ (مذ: سرسبز) ۲-۱۷۱۷ (مذ: مبارک - بارکت)

مخطوط (درج: خط) ۱-۷-۱۷۱۷ (مذ: خط دار - لکیروں والا - وہ چیز جس پر دھاریاں پڑی ہوئی ہوں - دھاریاں والا)

مخطوب (درج: صفت) ۱-۷-۱۷۱۷ (مذ: منسوب - دودھ دیا گیا)

مخطوبہ (درج: طبر) ۱-۷-۱۷۱۷ (مذ: وہ عورت جس کی منگنی ہوگئی ہو)

مخطور (درج: طبر) ۱-۷-۱۷۱۷ (مذ: خطرہ کیا گیا - اندیشہ کیا گیا) ۲-۱۷۱۷ (مذ: بات بردل میں گزرے - دل میں پیدا ہونے والا خیال)

مخطورات (درج: طبر رات) ۱-۷-۱۷۱۷ (مذ: مخطور کی جمع - دلی خطرے)

مخطی (درج: طبر) ۱-۷-۱۷۱۷ (مذ: جس سے بے ارادہ خطا ہو جائے - وہ جو غلطی سے خطا کرے)

مخفف (درج: صفت) ۱-۷-۱۷۱۷ (مذ: تخفیف کیا گیا - کم کیا گیا گھٹایا گیا) ۲-۱۷۱۷ (مذ: اختصار کیا گیا - ہلکا کیا گیا) ۳-۱۷۱۷ (مذ: وہ لفظ جس میں سے کوئی صوت کم کیا گیا ہو جیسے 'بودے' و 'بیدے')

مخفی (درج: صفت) ۱-۷-۱۷۱۷ (مذ: چھپا ہوا - پوشیدہ - خفیہ - مخفی رکھنا) ۲-۱۷۱۷ (مذ: چھپانا - پوشیدہ رکھنا)

مخفی نہ ہونے (درج: صفت) ۱-۷-۱۷۱۷ (مذ: چھپا نہ رہے - واضح ہو - معلوم ہو)

مختہ پرواز -

مختل ہونا (۱-۷-۱۷۱۷) (مذ: مریکب) (مذ: خلل ڈالنا - خلل انداز ہونا - رختہ انداز ہونا)

مختلہ (درج: مغل) ۱-۷-۱۷۱۷ (مذ: ہمیشہ کا - دائمی) ۲-۱۷۱۷ (مذ: جو بڑھ چاہے میں بھی کام کے لائق ہو)

مختلص (درج: لفظ) ۱-۷-۱۷۱۷ (مذ: مختلص سے) ۲-۱۷۱۷ (مذ: مختلص سے) ۳-۱۷۱۷ (مذ: مختلص سے)

مختلص (درج: لفظ) ۱-۷-۱۷۱۷ (مذ: مختلص سے) ۲-۱۷۱۷ (مذ: مختلص سے) ۳-۱۷۱۷ (مذ: مختلص سے)

مختلص (درج: لفظ) ۱-۷-۱۷۱۷ (مذ: مختلص سے) ۲-۱۷۱۷ (مذ: مختلص سے) ۳-۱۷۱۷ (مذ: مختلص سے)

مختلص (درج: لفظ) ۱-۷-۱۷۱۷ (مذ: مختلص سے) ۲-۱۷۱۷ (مذ: مختلص سے) ۳-۱۷۱۷ (مذ: مختلص سے)

مختلص (درج: لفظ) ۱-۷-۱۷۱۷ (مذ: مختلص سے) ۲-۱۷۱۷ (مذ: مختلص سے) ۳-۱۷۱۷ (مذ: مختلص سے)

مختلص (درج: لفظ) ۱-۷-۱۷۱۷ (مذ: مختلص سے) ۲-۱۷۱۷ (مذ: مختلص سے) ۳-۱۷۱۷ (مذ: مختلص سے)

مختلص (درج: لفظ) ۱-۷-۱۷۱۷ (مذ: مختلص سے) ۲-۱۷۱۷ (مذ: مختلص سے) ۳-۱۷۱۷ (مذ: مختلص سے)

مختلص (درج: لفظ) ۱-۷-۱۷۱۷ (مذ: مختلص سے) ۲-۱۷۱۷ (مذ: مختلص سے) ۳-۱۷۱۷ (مذ: مختلص سے)

مختلص (درج: لفظ) ۱-۷-۱۷۱۷ (مذ: مختلص سے) ۲-۱۷۱۷ (مذ: مختلص سے) ۳-۱۷۱۷ (مذ: مختلص سے)

مختلص (درج: لفظ) ۱-۷-۱۷۱۷ (مذ: مختلص سے) ۲-۱۷۱۷ (مذ: مختلص سے) ۳-۱۷۱۷ (مذ: مختلص سے)

مختلص (درج: لفظ) ۱-۷-۱۷۱۷ (مذ: مختلص سے) ۲-۱۷۱۷ (مذ: مختلص سے) ۳-۱۷۱۷ (مذ: مختلص سے)

مختلص (درج: لفظ) ۱-۷-۱۷۱۷ (مذ: مختلص سے) ۲-۱۷۱۷ (مذ: مختلص سے) ۳-۱۷۱۷ (مذ: مختلص سے)

مختلص (درج: لفظ) ۱-۷-۱۷۱۷ (مذ: مختلص سے) ۲-۱۷۱۷ (مذ: مختلص سے) ۳-۱۷۱۷ (مذ: مختلص سے)

مختلص (درج: لفظ) ۱-۷-۱۷۱۷ (مذ: مختلص سے) ۲-۱۷۱۷ (مذ: مختلص سے) ۳-۱۷۱۷ (مذ: مختلص سے)

مختلص (درج: لفظ) ۱-۷-۱۷۱۷ (مذ: مختلص سے) ۲-۱۷۱۷ (مذ: مختلص سے) ۳-۱۷۱۷ (مذ: مختلص سے)

۵۵) جنوں دیوانگی (۶) منی۔ لفظ (۷) وہ پانی جو مستی کی حالت میں
انجی کی کنپٹی سے چمکے۔ پستانوں یا درختوں سے چمکے۔ (۸) مذی
دریا۔

مذہبھرا۔ (۱) صف (مست) نشہ میں چور۔
مذہبھریے نین۔ (۲) صف (نیشی) انھیں مست آنکھیں۔
مذہبھرا آکا۔ (۱۶) محاورہ (مست ہونا) ہونا۔

مذہبانہ۔ (۱) ۵۱۔ (۱) مذم سرشار۔ محمور۔ مست۔ مذہوش۔ نشہ میں چور (۲)
مغزور۔ گھنٹی۔ تنکیر (۳) جوان۔ جوہن پسا یا ہوا۔ (۴)
نفس پرست۔

مذہب ماتی۔ (۱) ۵۶۔ (۱) مستی کے جوش میں آئی ہوئی (۲) محمور۔ مست۔ متوالی
(۳) خواہشمند۔ بجز حقوق (۴) مغزور میں بھری ہوئی۔

مذہب متا۔ مذہوش۔ مست۔

مذہب۔ (۱) ۵۷۔ (۱) ایک پیمانہ جو وزن میں دو مل بوتل ہے۔

مذہب۔ (۱) ۵۸۔ (۱) مست۔ سستا۔ راز۔ قیمت۔

مذہب پڑنا۔ (۱) ۱۱۔ محاورہ (کسا بازاری ہونا) سستا ہونا۔

مذہب۔ (۱) ۵۹۔ (۱) صفت (مدح کرنے والا) تعریف کرنے والا۔
شناخت۔ جمع۔ مآمین۔

مذہب۔ (۱) ۶۰۔ (۱) صفت (مدح کرنے کا فعل)۔ شناختی
مدح سرائی۔

مذہب۔ (۱) ۶۱۔ (۱) صفت (مدح کرنے کی جمع)۔ آمدنی۔ محاصل۔
معاطرہ۔ خراج۔

مذہب۔ (۱) ۶۲۔ (۱) آمدنی و مخارج۔ (۲) آمدنی و خرچ۔ (۳) روپیہ کی درآمد یا
مذہب۔ (۱) ۶۳۔ (۱) صفت (مدح کرنے والا) مدح۔ دست اندازی۔ مزاحمت
تعرض۔ قابو۔ تصرف۔

مذہب۔ (۱) ۶۴۔ (۱) صفت (مدح کرنے والا) اجازت کسی کے مکان
میں گھسنا۔ بوجہ اجازت دخل کرنا۔

مذہب۔ (۱) ۶۵۔ (۱) صفت (مدح کرنے والا) کسی کے مکان یا زمین پر
اُس کی اجازت کے جوہر کرنے یا کسی کو بے عزت کرنے یا رنج دینے کے
لیے داخل ہونا۔

مذہب۔ (۱) ۶۶۔ (۱) صفت (مدح کرنے والا) دست اندازی۔ علانیہ
کسی کے گھر میں گھسنا۔

مذہب۔ (۱) ۶۷۔ (۱) صفت (مدح کرنے والا) ہونا بیخ میں یوں۔ دست اندازی کرنا۔
مذہب۔ (۱) ۶۸۔ (۱) صفت (مدح کرنے والا) دولت کی سیاہی۔

مذہب۔ (۱) ۶۹۔ (۱) صفت (مدح کرنے والا) حرف مٹانے کی چیز۔ ربط وغیرہ۔

مذہب۔ (۱) ۷۰۔ (۱) صفت (مدح کرنے والا) آگ کا پودا جس کے پھولوں سے درود اور
دُورِ دل سے روٹی کی مانند روٹی نکلتے ہیں۔

مذہب۔ (۱) ۷۱۔ (۱) صفت (مدح کرنے والا) زمین کا مرکز۔

مذہب۔ (۱) ۷۲۔ (۱) صفت (مدح کرنے والا) سبز رنگ کا کپڑا جس کے پیر
سرخ ہوتے ہیں۔

مذہب۔ (۱) ۷۳۔ (۱) صفت (مدح کرنے والا) خیرات کرنے والا۔
مذہب۔ (۱) ۷۴۔ (۱) صفت (مدح کرنے والا) سوچا گیا۔
مذہب۔ (۱) ۷۵۔ (۱) صفت (مدح کرنے والا) قوت۔ قوت۔ خیال۔
مذہب۔ (۱) ۷۶۔ (۱) صفت (مدح کرنے والا) قوت۔ قوت۔ خیال۔
مذہب۔ (۱) ۷۷۔ (۱) صفت (مدح کرنے والا) قوت۔ قوت۔ خیال۔
مذہب۔ (۱) ۷۸۔ (۱) صفت (مدح کرنے والا) قوت۔ قوت۔ خیال۔

م۔د

مذہب۔ (۱) ۷۹۔ (۱) صفت (مدح کرنے والا) چاند کی کشش سے سمندر
کے پانی کا چھوٹا سا ڈھلوان۔ (۲) درازی۔ (۳) پھیلاؤ۔ (۴) وہ
لمبا خط جو حساب یا عرضی میں کچھ کر اس کے نیچے حساب یا منہوں
کرتے ہیں۔ (۵) سرشت۔ دفتر صیغہ (۶) عنوان۔ سرنامہ۔
مذہب۔ (۱) ۸۰۔ (۱) صفت (مدح کرنے والا) کچھ بڑھنے کی علامت۔
(۲) باب (۹) اذکار (۱۰) رقم۔

مذہب۔ (۱) ۸۱۔ (۱) صفت (مدح کرنے والا) امانت۔ (۲) حساب
امانت۔

مذہب۔ (۱) ۸۲۔ (۱) صفت (مدح کرنے والا) انھیں مست آنکھیں۔
مذہب۔ (۱) ۸۳۔ (۱) صفت (مدح کرنے والا) ذیلی عنوان جو کسی بڑے عنوان کے تحت ہو۔

مذہب۔ (۱) ۸۴۔ (۱) صفت (مدح کرنے والا) سرور کا خط جو آنکھوں میں کھینچا
جاتا ہے۔

مذہب۔ (۱) ۸۵۔ (۱) صفت (مدح کرنے والا) دعا۔ خدا اس کا سایہ عافیت ہمیشہ
قائم رکھے۔

مذہب۔ (۱) ۸۶۔ (۱) صفت (مدح کرنے والا) کاروبار کی برتنوں اور بے کار چیزوں
مذہب۔ (۱) ۸۷۔ (۱) صفت (مدح کرنے والا) وہ بڑا عنوان جس کے ماتحت کئی ذیلی عنوان
ہوں۔

مذہب۔ (۱) ۸۸۔ (۱) صفت (مدح کرنے والا) برابر کا دعوے دار۔ حریف۔ قویب
برابر کی چوٹ۔ برابر کا جوڑ (۲) برابر خط۔ جمع اور خرچ کی
مذہب۔ (۱) ۸۹۔ (۱) صفت (مدح کرنے والا) ہوتی ہے (۳) سوداگروں
کا باہمی کھاتا۔

مذہب۔ (۱) ۹۰۔ (۱) صفت (مدح کرنے والا) ہونے پر پیش نظر (۲) (۱) (۲)
ارادہ۔ قصد۔ منصوبہ۔

مذہب۔ (۱) ۹۱۔ (۱) صفت (مدح کرنے والا) چاند کی کشش سے سمندر کے پانی کا
دورانہ آنا چھوٹا۔

مذہب۔ (۱) ۹۲۔ (۱) صفت (مدح کرنے والا) لبا کرنا۔

مذہب۔ (۱) ۹۳۔ (۱) صفت (مدح کرنے والا) سرشاری۔ مذہوشی (۲) شراب
بادہ (۳) خوشی۔ مسترت۔ فرحت (۴) مغزور۔ تنکیر۔ گھنٹی۔

مدار کی بڑھیا (۱)۔ مدت (۱)۔ آگ کے ڈوڑے میں سے نکلے ہوئے روئیں جو سما میں اٹھتے پھرتے ہیں۔

مدار۔ (۱)۔ دم (دار)۔ (ع)۔ (۱)۔ اندر گردش کی جگہ۔ دور کرنے کی بوجھل۔ دھیری کیل ۲۲، مٹھکھا گیا۔ موقوف کیا گیا جس پر کوئی بات ٹھہری ہو یا خاصہ (۳)۔ دور۔ دائرہ (۴)۔ قرار۔ ٹھہراؤ۔ قیام۔

مدار المہام۔ وہ شخص جس پر امور سلطنت کا دار و مدار ہو۔ وزیر اعظم۔ مدار کار۔ (ع)۔ ف۔ (۱)۔ اندر کام کا انحصار۔ موقوف علیہ۔ مدارا۔ (۱)۔ دم۔ دائرہ (۲)۔ ف۔ (۱)۔ مدت (۳)۔ خاطر تواضع۔ آؤ بھگت۔ صلح۔ رعایت مآشتی۔

مدار است۔ (۱)۔ دم۔ (۱)۔ رات (ع)۔ (۱)۔ مدت (۳)۔ خاطر تواضع۔ اچھی طرح پیش آنا۔

مدارج۔ (۱)۔ دم۔ (۱)۔ راج (ع)۔ (۱)۔ اندر مدت کی جمع۔ درجے۔ نسبتے متناصب۔

مدار رس۔ (۱)۔ دم۔ (۱)۔ ریس (ع)۔ (۱)۔ اندر مدرسہ کی جمع۔ مدرسے۔ بکاتب درس کا کہیں۔

مدار ری۔ (۱)۔ دم۔ (۱)۔ ری (ع)۔ (۱)۔ اندر شہیدہ باز۔ ہاتھ کی چالکی سے کیل تماشے کرنے والا (۲)۔ بھان متی۔ ٹپ۔ بازی گر۔ بندر۔ رچھو اور سانپ کا تماشہ کرنے والا۔

مدار یا۔ (۱)۔ دم۔ غبار۔ (۱)۔ (۱)۔ اندر حضرت شاہ مدار کے سلسلہ کا پیرو۔ (۲)۔ ایک قسم کا چھوٹا تختہ۔

مدافع۔ (ع)۔ صفت (۱)۔ جس کی مخالفت کی جائے۔ جسے روکا جائے۔

مدافع۔ (۱)۔ دم۔ (۱)۔ دفع (ع)۔ صفت (۱)۔ دفع کرنے والا۔ ہٹانے والا۔

مدافعت۔ (۱)۔ دم۔ (۱)۔ ف۔ (ع)۔ (۱)۔ اندر دفع کرنا۔ روک۔ دفعیہ۔ تنوید۔

مدام۔ (۱)۔ دم۔ (۱)۔ صفت (۱)۔ ہمیشہ۔ سمانت۔ دائم۔ متواتر۔ شراب۔ دے۔ مداوا۔ (۱)۔ دم۔ (۱)۔ (ع)۔ ف۔ (۱)۔ اندر مداوات کا کثف۔ دوا۔ علاج۔

مدالہ۔ (۱)۔ دم۔ (۱)۔ صفت (۱)۔ تدبیر۔ چارہ۔

مداد و مدت۔ (۱)۔ دم۔ (۱)۔ (ع)۔ (۱)۔ مدت (۱)۔ ہمیشگی۔ تمام۔

مداد و ثبات۔ (۱)۔ دم۔ (۱)۔ (ع)۔ (۱)۔ مدت (۱)۔

مداد و نسی۔ (۱)۔ دم۔ (۱)۔ (ع)۔ (۱)۔ مدت (۱)۔

مداد و نسی۔ (۱)۔ دم۔ (۱)۔ (ع)۔ (۱)۔ مدت (۱)۔

مداد و نسی۔ (۱)۔ دم۔ (۱)۔ (ع)۔ (۱)۔ مدت (۱)۔

مداد و نسی۔ (۱)۔ دم۔ (۱)۔ (ع)۔ (۱)۔ مدت (۱)۔

مداد و نسی۔ (۱)۔ دم۔ (۱)۔ (ع)۔ (۱)۔ مدت (۱)۔

مداد و نسی۔ (۱)۔ دم۔ (۱)۔ (ع)۔ (۱)۔ مدت (۱)۔

مداد و نسی۔ (۱)۔ دم۔ (۱)۔ (ع)۔ (۱)۔ مدت (۱)۔

مداد و نسی۔ (۱)۔ دم۔ (۱)۔ (ع)۔ (۱)۔ مدت (۱)۔

مداد و نسی۔ (۱)۔ دم۔ (۱)۔ (ع)۔ (۱)۔ مدت (۱)۔

مداد و نسی۔ (۱)۔ دم۔ (۱)۔ (ع)۔ (۱)۔ مدت (۱)۔

مداد و نسی۔ (۱)۔ دم۔ (۱)۔ (ع)۔ (۱)۔ مدت (۱)۔

مدبر۔ (۱)۔ دم۔ (۱)۔ (ع)۔ (۱)۔ مدت (۱)۔

مدبران۔ (۱)۔ دم۔ (۱)۔ (ع)۔ (۱)۔ مدت (۱)۔

مدبران سلطنت۔ (۱)۔ دم۔ (۱)۔ (ع)۔ (۱)۔ مدت (۱)۔

مدبران ملک۔ (۱)۔ دم۔ (۱)۔ (ع)۔ (۱)۔ مدت (۱)۔

مدبریں۔ (۱)۔ دم۔ (۱)۔ (ع)۔ (۱)۔ مدت (۱)۔

مدبریں۔ (۱)۔ دم۔ (۱)۔ (ع)۔ (۱)۔ مدت (۱)۔

مدبریں۔ (۱)۔ دم۔ (۱)۔ (ع)۔ (۱)۔ مدت (۱)۔

مدبریں۔ (۱)۔ دم۔ (۱)۔ (ع)۔ (۱)۔ مدت (۱)۔

مدبریں۔ (۱)۔ دم۔ (۱)۔ (ع)۔ (۱)۔ مدت (۱)۔

مدت۔ (۱)۔ دم۔ (۱)۔ (ع)۔ (۱)۔ مدت (۱)۔

مدت۔ (۱)۔ دم۔ (۱)۔ (ع)۔ (۱)۔ مدت (۱)۔

مدت العمر۔ (۱)۔ دم۔ (۱)۔ (ع)۔ (۱)۔ مدت (۱)۔

مدت حیات۔ (۱)۔ دم۔ (۱)۔ (ع)۔ (۱)۔ مدت (۱)۔

مدت عدت۔ (۱)۔ دم۔ (۱)۔ (ع)۔ (۱)۔ مدت (۱)۔

مدت مدیدہ۔ (۱)۔ دم۔ (۱)۔ (ع)۔ (۱)۔ مدت (۱)۔

مدت مقررہ۔ (۱)۔ دم۔ (۱)۔ (ع)۔ (۱)۔ مدت (۱)۔

مدت میں۔ (۱)۔ دم۔ (۱)۔ (ع)۔ (۱)۔ مدت (۱)۔

مدت معلیٰ۔ (۱)۔ دم۔ (۱)۔ (ع)۔ (۱)۔ مدت (۱)۔

مدتوں کی بات۔ (۱)۔ دم۔ (۱)۔ (ع)۔ (۱)۔ مدت (۱)۔

مدتوں کی بات۔ (۱)۔ دم۔ (۱)۔ (ع)۔ (۱)۔ مدت (۱)۔

مدتوں کی بات۔ (۱)۔ دم۔ (۱)۔ (ع)۔ (۱)۔ مدت (۱)۔

مدتوں کی بات۔ (۱)۔ دم۔ (۱)۔ (ع)۔ (۱)۔ مدت (۱)۔

مدتوں کی بات۔ (۱)۔ دم۔ (۱)۔ (ع)۔ (۱)۔ مدت (۱)۔

مدتوں کی بات۔ (۱)۔ دم۔ (۱)۔ (ع)۔ (۱)۔ مدت (۱)۔

مدتوں کی بات۔ (۱)۔ دم۔ (۱)۔ (ع)۔ (۱)۔ مدت (۱)۔

مدتوں کی بات۔ (۱)۔ دم۔ (۱)۔ (ع)۔ (۱)۔ مدت (۱)۔

مدتوں کی بات۔ (۱)۔ دم۔ (۱)۔ (ع)۔ (۱)۔ مدت (۱)۔

مدتوں کی بات۔ (۱)۔ دم۔ (۱)۔ (ع)۔ (۱)۔ مدت (۱)۔

مدتوں کی بات۔ (۱)۔ دم۔ (۱)۔ (ع)۔ (۱)۔ مدت (۱)۔

مدتوں کی بات۔ (۱)۔ دم۔ (۱)۔ (ع)۔ (۱)۔ مدت (۱)۔

مدتوں کی بات۔ (۱)۔ دم۔ (۱)۔ (ع)۔ (۱)۔ مدت (۱)۔

مدتوں کی بات۔ (۱)۔ دم۔ (۱)۔ (ع)۔ (۱)۔ مدت (۱)۔

مدتوں کی بات۔ (۱)۔ دم۔ (۱)۔ (ع)۔ (۱)۔ مدت (۱)۔

مدتوں کی بات۔ (۱)۔ دم۔ (۱)۔ (ع)۔ (۱)۔ مدت (۱)۔

مدتوں کی بات۔ (۱)۔ دم۔ (۱)۔ (ع)۔ (۱)۔ مدت (۱)۔

مدتوں کی بات۔ (۱)۔ دم۔ (۱)۔ (ع)۔ (۱)۔ مدت (۱)۔

مدتوں کی بات۔ (۱)۔ دم۔ (۱)۔ (ع)۔ (۱)۔ مدت (۱)۔

مدتوں کی بات۔ (۱)۔ دم۔ (۱)۔ (ع)۔ (۱)۔ مدت (۱)۔

مدتوں کی بات۔ (۱)۔ دم۔ (۱)۔ (ع)۔ (۱)۔ مدت (۱)۔

مدرِ کولمہ - (مذ - نور، ۱) (ج - صف) وہ عورت جسے گھر میں ڈال لیا ہو۔ وہ عورت جس سے صحبت کی گئی ہو۔
مدرِ دوم (مذ - ۶۶) - ۱۔ مٹ (ملک) - امداد - بہارا - اعانت (۲) - رسائی تک (۴) - راج - مزدور - کار تعمیر - اجرت - مزدوری -

مدرِ اللہ (ج - ۷) - ف - لکھ اسلام، عشق اللہ کا جواب جو آزاد فقیر بہتے دیکھ اسلام کے استعمال کرتے ہیں۔
مدرِ بانگشا - (۱۶ - محاورہ) مزدوروں کو مزدوری تقسیم کرنا۔ اجرت تقسیم کرنا۔
مدرِ ہنہ پانیا - (۱۶ - محاورہ) بہارا دینا۔ دست گیری کرنا، ٹنگ ہنہ پانیا۔
مدرِ خرچ (مٹ) - بطور امداد کچھ دینا۔ خرچ میں امداد (۲) پیشگی روپیہ دینا۔ نقاد -

مدرِ کرنا - (۱۶) - مص مرکب (دست گیری کرنا - ملکہ دینا - بہارا دینا - پشتی کرنا۔
مدرِ گار (ج - ۷) - ف - صف) مدر کرنے والا۔ معاون۔ حمایتی۔ معین۔
مدرِ لنگنا (۱۶ - محاورہ) مہاروں مزدوروں کو تعمیر کے کام پر لگانا۔

مدرِ ناگشا - امداد چاہنا۔ بہارا طلب کرنا۔ حمایت کی درخواست کرنا۔
مدرِ تجر (ج - ۷) - ف - (مذ) نائب تجر۔ وہ اہلکار جو کار تحریر میں اپنے سے بالاتر تحریر کی مدد کرے۔
مدرِ معاش (۷) - ۱۔ مٹ (مٹ) - کھانے پینے کا بہارا - پرورش کا وسیلہ (۲) - وظیفہ - پنشن - وہ جاگیر جو علماء اور دلہنوں کو بطور امداد معاش کے دی جاتی ہے۔

مدر - (۱۶ - مذ) ایک پورا جس کے پھول سُرخ ہوتے ہیں اور دوائیں میں کام آتا ہے۔ - خیاب۔
مدر - (۷) - (مذ) ۱۔ مٹ (ج - صف) پیشاب لانے والی دوائیں۔ جمع - مدرات۔
مدر - (۱۶ - مذ) ۱۔ مٹ (ج - صف) ۲۔ مٹ (ج - صف) ۳۔ عیاش۔

مدر - (۱۶ - مذ) ۱۔ مٹ (ج - صف) ۲۔ مٹ (ج - صف) ۳۔ عیاش۔
مدر - (۱۶ - مذ) ۱۔ مٹ (ج - صف) ۲۔ مٹ (ج - صف) ۳۔ عیاش۔
مدر - (۱۶ - مذ) ۱۔ مٹ (ج - صف) ۲۔ مٹ (ج - صف) ۳۔ عیاش۔

مدر - (۱۶ - مذ) ۱۔ مٹ (ج - صف) ۲۔ مٹ (ج - صف) ۳۔ عیاش۔
مدر - (۱۶ - مذ) ۱۔ مٹ (ج - صف) ۲۔ مٹ (ج - صف) ۳۔ عیاش۔
مدر - (۱۶ - مذ) ۱۔ مٹ (ج - صف) ۲۔ مٹ (ج - صف) ۳۔ عیاش۔

مدر - (۱۶ - مذ) ۱۔ مٹ (ج - صف) ۲۔ مٹ (ج - صف) ۳۔ عیاش۔
مدر - (۱۶ - مذ) ۱۔ مٹ (ج - صف) ۲۔ مٹ (ج - صف) ۳۔ عیاش۔
مدر - (۱۶ - مذ) ۱۔ مٹ (ج - صف) ۲۔ مٹ (ج - صف) ۳۔ عیاش۔

مدر - (۱۶ - مذ) ۱۔ مٹ (ج - صف) ۲۔ مٹ (ج - صف) ۳۔ عیاش۔
مدر - (۱۶ - مذ) ۱۔ مٹ (ج - صف) ۲۔ مٹ (ج - صف) ۳۔ عیاش۔
مدر - (۱۶ - مذ) ۱۔ مٹ (ج - صف) ۲۔ مٹ (ج - صف) ۳۔ عیاش۔

مدر - (۱۶ - مذ) ۱۔ مٹ (ج - صف) ۲۔ مٹ (ج - صف) ۳۔ عیاش۔
مدر - (۱۶ - مذ) ۱۔ مٹ (ج - صف) ۲۔ مٹ (ج - صف) ۳۔ عیاش۔
مدر - (۱۶ - مذ) ۱۔ مٹ (ج - صف) ۲۔ مٹ (ج - صف) ۳۔ عیاش۔

مدر - (۱۶ - مذ) ۱۔ مٹ (ج - صف) ۲۔ مٹ (ج - صف) ۳۔ عیاش۔
مدر - (۱۶ - مذ) ۱۔ مٹ (ج - صف) ۲۔ مٹ (ج - صف) ۳۔ عیاش۔
مدر - (۱۶ - مذ) ۱۔ مٹ (ج - صف) ۲۔ مٹ (ج - صف) ۳۔ عیاش۔

مدر - (۱۶ - مذ) ۱۔ مٹ (ج - صف) ۲۔ مٹ (ج - صف) ۳۔ عیاش۔
مدر - (۱۶ - مذ) ۱۔ مٹ (ج - صف) ۲۔ مٹ (ج - صف) ۳۔ عیاش۔
مدر - (۱۶ - مذ) ۱۔ مٹ (ج - صف) ۲۔ مٹ (ج - صف) ۳۔ عیاش۔

مدر - (۱۶ - مذ) ۱۔ مٹ (ج - صف) ۲۔ مٹ (ج - صف) ۳۔ عیاش۔
مدر - (۱۶ - مذ) ۱۔ مٹ (ج - صف) ۲۔ مٹ (ج - صف) ۳۔ عیاش۔
مدر - (۱۶ - مذ) ۱۔ مٹ (ج - صف) ۲۔ مٹ (ج - صف) ۳۔ عیاش۔

مدر - (۱۶ - مذ) ۱۔ مٹ (ج - صف) ۲۔ مٹ (ج - صف) ۳۔ عیاش۔
مدر - (۱۶ - مذ) ۱۔ مٹ (ج - صف) ۲۔ مٹ (ج - صف) ۳۔ عیاش۔
مدر - (۱۶ - مذ) ۱۔ مٹ (ج - صف) ۲۔ مٹ (ج - صف) ۳۔ عیاش۔

مدر - (۱۶ - مذ) ۱۔ مٹ (ج - صف) ۲۔ مٹ (ج - صف) ۳۔ عیاش۔
مدر - (۱۶ - مذ) ۱۔ مٹ (ج - صف) ۲۔ مٹ (ج - صف) ۳۔ عیاش۔
مدر - (۱۶ - مذ) ۱۔ مٹ (ج - صف) ۲۔ مٹ (ج - صف) ۳۔ عیاش۔

مدر - (۱۶ - مذ) ۱۔ مٹ (ج - صف) ۲۔ مٹ (ج - صف) ۳۔ عیاش۔
مدر - (۱۶ - مذ) ۱۔ مٹ (ج - صف) ۲۔ مٹ (ج - صف) ۳۔ عیاش۔
مدر - (۱۶ - مذ) ۱۔ مٹ (ج - صف) ۲۔ مٹ (ج - صف) ۳۔ عیاش۔

مدر - (۱۶ - مذ) ۱۔ مٹ (ج - صف) ۲۔ مٹ (ج - صف) ۳۔ عیاش۔
مدر - (۱۶ - مذ) ۱۔ مٹ (ج - صف) ۲۔ مٹ (ج - صف) ۳۔ عیاش۔
مدر - (۱۶ - مذ) ۱۔ مٹ (ج - صف) ۲۔ مٹ (ج - صف) ۳۔ عیاش۔

مدر - (۱۶ - مذ) ۱۔ مٹ (ج - صف) ۲۔ مٹ (ج - صف) ۳۔ عیاش۔
مدر - (۱۶ - مذ) ۱۔ مٹ (ج - صف) ۲۔ مٹ (ج - صف) ۳۔ عیاش۔
مدر - (۱۶ - مذ) ۱۔ مٹ (ج - صف) ۲۔ مٹ (ج - صف) ۳۔ عیاش۔

مدر - (۱۶ - مذ) ۱۔ مٹ (ج - صف) ۲۔ مٹ (ج - صف) ۳۔ عیاش۔
مدر - (۱۶ - مذ) ۱۔ مٹ (ج - صف) ۲۔ مٹ (ج - صف) ۳۔ عیاش۔
مدر - (۱۶ - مذ) ۱۔ مٹ (ج - صف) ۲۔ مٹ (ج - صف) ۳۔ عیاش۔

مدر - (۱۶ - مذ) ۱۔ مٹ (ج - صف) ۲۔ مٹ (ج - صف) ۳۔ عیاش۔
مدر - (۱۶ - مذ) ۱۔ مٹ (ج - صف) ۲۔ مٹ (ج - صف) ۳۔ عیاش۔
مدر - (۱۶ - مذ) ۱۔ مٹ (ج - صف) ۲۔ مٹ (ج - صف) ۳۔ عیاش۔

مدر - (۱۶ - مذ) ۱۔ مٹ (ج - صف) ۲۔ مٹ (ج - صف) ۳۔ عیاش۔
مدر - (۱۶ - مذ) ۱۔ مٹ (ج - صف) ۲۔ مٹ (ج - صف) ۳۔ عیاش۔
مدر - (۱۶ - مذ) ۱۔ مٹ (ج - صف) ۲۔ مٹ (ج - صف) ۳۔ عیاش۔

مدر - (۱۶ - مذ) ۱۔ مٹ (ج - صف) ۲۔ مٹ (ج - صف) ۳۔ عیاش۔
مدر - (۱۶ - مذ) ۱۔ مٹ (ج - صف) ۲۔ مٹ (ج - صف) ۳۔ عیاش۔
مدر - (۱۶ - مذ) ۱۔ مٹ (ج - صف) ۲۔ مٹ (ج - صف) ۳۔ عیاش۔

مدر - (۱۶ - مذ) ۱۔ مٹ (ج - صف) ۲۔ مٹ (ج - صف) ۳۔ عیاش۔
مدر - (۱۶ - مذ) ۱۔ مٹ (ج - صف) ۲۔ مٹ (ج - صف) ۳۔ عیاش۔
مدر - (۱۶ - مذ) ۱۔ مٹ (ج - صف) ۲۔ مٹ (ج - صف) ۳۔ عیاش۔

مدر - (۱۶ - مذ) ۱۔ مٹ (ج - صف) ۲۔ مٹ (ج - صف) ۳۔ عیاش۔
مدر - (۱۶ - مذ) ۱۔ مٹ (ج - صف) ۲۔ مٹ (ج - صف) ۳۔ عیاش۔
مدر - (۱۶ - مذ) ۱۔ مٹ (ج - صف) ۲۔ مٹ (ج - صف) ۳۔ عیاش۔

مدر - (۱۶ - مذ) ۱۔ مٹ (ج - صف) ۲۔ مٹ (ج - صف) ۳۔ عیاش۔
مدر - (۱۶ - مذ) ۱۔ مٹ (ج - صف) ۲۔ مٹ (ج - صف) ۳۔ عیاش۔
مدر - (۱۶ - مذ) ۱۔ مٹ (ج - صف) ۲۔ مٹ (ج - صف) ۳۔ عیاش۔

مَدَوَانَا - مَدَوَلگنا - مَدَوپکنا - ۱۶۔ محاورہ (گھوڑے کے کندھے پر زخم ہو جانا)۔
مَدَوَسیَا - ۱۷۔ مَدَوَسیَا ہنسینیسہ - ۵۶۔ ۱۔ مَدَو (ایک قسم کا مٹھنا پیسہ جس کا پلین آپ نہیں رہا)۔
مَدَوَدَر - ۱۸۔ مَدَوَدَر (ع) - صاف (دارہ نما گول)۔
مَدَوَدَل - ۱۹۔ مَدَوَدَل (ع) - ۱۔ مَدَو (مٹھنا) ترتیب دینے والا - جمع کرنے والا۔
مَدَوَدَلَن - ۲۰۔ مَدَوَدَلَن (ع) - صاف (جمع کیا، ہوا) - ترتیب دیا ہوا۔
مَدَوَدَلہ - ۲۱۔ مَدَوَدَلہ (ع) - شہد (۲)، شراب (۲)، کوئی منشی چیز (۳)، غرور - تکبر (۴)، مٹھنا بہار - بسنت رت (۵)، غمغمان شباب (۶)، مُسْتی (۷)، وہ رطوبت جو درختوں سے ٹپکتی ہے (۸)، (صف) درمیان - وسط - بیچ۔
مَدَوَدَلہ پُر آنا - مَدَوَدَلہ میں آنا - ۱۶۔ محاورہ (جوان ہونا - چیل کا کھینے پر آنا)۔
مَدَوَدَلہ مات - ۲۲۔ مَدَوَدَلہ (ع) - ایک راگنی کا نام۔
مَدَوَدَلہ ماتا - ۲۳۔ مَدَوَدَلہ (ع) - قدم نشتر میں مُسْت۔
مَدَوَدَلہ - ۲۴۔ مَدَوَدَلہ (ع) - ۱۔ صاف (تھیریں مینٹھا - مڑے دار (۲)، مٹھنا (۳)، دل پسند - پیارا - مرغوب الطبع دم، غراماں، مٹھنا چال، لٹک چال، معشوقانہ رفتار (۵)، دھیما نرم - ملائم، متوسط درجہ کا۔
مَدَوَدَلہ پانی - ۲۵۔ مَدَوَدَلہ (ع) - ۱۔ مٹھنا (تھیریں کلامی مینٹھا لول)۔
مَدَوَدَلہ لولکنا - ۲۶۔ مَدَوَدَلہ (ع) - ۱۶۔ مٹھنا لولکنا (تھیریں کلامی سے پیش آنا - دھڑا - دھڑا) (۲) - مٹھنا (صف) - متوسط - درمیان - میانہ۔
مَدَوَدَلہ رسی - ۲۷۔ مَدَوَدَلہ (ع) - ۱۱۔ صاف (مٹھی - کھیل مرغوب - دل پسند)۔
مَدَوَدَلہ - ۲۸۔ مَدَوَدَلہ (ع) - ۱۰۔ صاف (آہستہ - دھیما (۲)، متوسط - میانہ)۔
مَدَوَدَلہ - ۲۹۔ مَدَوَدَلہ (ع) - ۱۳۔ نیچا - کم (۴) - ہلکا - خفیف (۵)، بے آب - پھیکا (۶) - ایک نر۔
مَدَوَدَلہ پتھنا - ۳۰۔ مَدَوَدَلہ (ع) - ۱۶۔ محاورہ (سستا بیچنا - ارزاں کر دینا - قیمت سے اگڑا کر فروخت کرنا)۔
مَدَوَدَلہ مٹھا مٹھ - ۳۱۔ مَدَوَدَلہ (ع) - ۱۶۔ سست آدمی (۲)، ستار کا وہ ٹٹھا مٹھ جو دم مٹھنا پر قائم کیا جائے۔
مَدَوَدَلہ مٹھ - ۳۲۔ مَدَوَدَلہ (ع) - ۱۶۔ مٹھنا (تھیریں) سے ایک درجہ بلند اور اس کا مٹھنا مٹھنا سے۔ دھیما نر۔ اس کا خفیف مٹھنا۔
مَدَوَدَلہ مٹھ - ۳۳۔ مَدَوَدَلہ (ع) - ۱۶۔ مٹھنا (تھیریں) سے ایک درجہ بلند اور اس کا مٹھنا مٹھنا سے۔ دھیما نر۔ اس کا خفیف مٹھنا۔
مَدَوَدَلہ مٹھ - ۳۴۔ مَدَوَدَلہ (ع) - ۱۶۔ مٹھنا (تھیریں) سے ایک درجہ بلند اور اس کا مٹھنا مٹھنا سے۔ دھیما نر۔ اس کا خفیف مٹھنا۔
مَدَوَدَلہ مٹھ - ۳۵۔ مَدَوَدَلہ (ع) - ۱۶۔ مٹھنا (تھیریں) سے ایک درجہ بلند اور اس کا مٹھنا مٹھنا سے۔ دھیما نر۔ اس کا خفیف مٹھنا۔
مَدَوَدَلہ مٹھ - ۳۶۔ مَدَوَدَلہ (ع) - ۱۶۔ مٹھنا (تھیریں) سے ایک درجہ بلند اور اس کا مٹھنا مٹھنا سے۔ دھیما نر۔ اس کا خفیف مٹھنا۔
مَدَوَدَلہ مٹھ - ۳۷۔ مَدَوَدَلہ (ع) - ۱۶۔ مٹھنا (تھیریں) سے ایک درجہ بلند اور اس کا مٹھنا مٹھنا سے۔ دھیما نر۔ اس کا خفیف مٹھنا۔
مَدَوَدَلہ مٹھ - ۳۸۔ مَدَوَدَلہ (ع) - ۱۶۔ مٹھنا (تھیریں) سے ایک درجہ بلند اور اس کا مٹھنا مٹھنا سے۔ دھیما نر۔ اس کا خفیف مٹھنا۔
مَدَوَدَلہ مٹھ - ۳۹۔ مَدَوَدَلہ (ع) - ۱۶۔ مٹھنا (تھیریں) سے ایک درجہ بلند اور اس کا مٹھنا مٹھنا سے۔ دھیما نر۔ اس کا خفیف مٹھنا۔
مَدَوَدَلہ مٹھ - ۴۰۔ مَدَوَدَلہ (ع) - ۱۶۔ مٹھنا (تھیریں) سے ایک درجہ بلند اور اس کا مٹھنا مٹھنا سے۔ دھیما نر۔ اس کا خفیف مٹھنا۔

مَدَوَدَلہ - ۴۱۔ مَدَوَدَلہ (ع) - ۱۶۔ مٹھنا (تھیریں) سے ایک درجہ بلند اور اس کا مٹھنا مٹھنا سے۔ دھیما نر۔ اس کا خفیف مٹھنا۔
مَدَوَدَلہ - ۴۲۔ مَدَوَدَلہ (ع) - ۱۶۔ مٹھنا (تھیریں) سے ایک درجہ بلند اور اس کا مٹھنا مٹھنا سے۔ دھیما نر۔ اس کا خفیف مٹھنا۔
مَدَوَدَلہ - ۴۳۔ مَدَوَدَلہ (ع) - ۱۶۔ مٹھنا (تھیریں) سے ایک درجہ بلند اور اس کا مٹھنا مٹھنا سے۔ دھیما نر۔ اس کا خفیف مٹھنا۔
مَدَوَدَلہ - ۴۴۔ مَدَوَدَلہ (ع) - ۱۶۔ مٹھنا (تھیریں) سے ایک درجہ بلند اور اس کا مٹھنا مٹھنا سے۔ دھیما نر۔ اس کا خفیف مٹھنا۔
مَدَوَدَلہ - ۴۵۔ مَدَوَدَلہ (ع) - ۱۶۔ مٹھنا (تھیریں) سے ایک درجہ بلند اور اس کا مٹھنا مٹھنا سے۔ دھیما نر۔ اس کا خفیف مٹھنا۔
مَدَوَدَلہ - ۴۶۔ مَدَوَدَلہ (ع) - ۱۶۔ مٹھنا (تھیریں) سے ایک درجہ بلند اور اس کا مٹھنا مٹھنا سے۔ دھیما نر۔ اس کا خفیف مٹھنا۔
مَدَوَدَلہ - ۴۷۔ مَدَوَدَلہ (ع) - ۱۶۔ مٹھنا (تھیریں) سے ایک درجہ بلند اور اس کا مٹھنا مٹھنا سے۔ دھیما نر۔ اس کا خفیف مٹھنا۔
مَدَوَدَلہ - ۴۸۔ مَدَوَدَلہ (ع) - ۱۶۔ مٹھنا (تھیریں) سے ایک درجہ بلند اور اس کا مٹھنا مٹھنا سے۔ دھیما نر۔ اس کا خفیف مٹھنا۔
مَدَوَدَلہ - ۴۹۔ مَدَوَدَلہ (ع) - ۱۶۔ مٹھنا (تھیریں) سے ایک درجہ بلند اور اس کا مٹھنا مٹھنا سے۔ دھیما نر۔ اس کا خفیف مٹھنا۔
مَدَوَدَلہ - ۵۰۔ مَدَوَدَلہ (ع) - ۱۶۔ مٹھنا (تھیریں) سے ایک درجہ بلند اور اس کا مٹھنا مٹھنا سے۔ دھیما نر۔ اس کا خفیف مٹھنا۔
مَدَوَدَلہ - ۵۱۔ مَدَوَدَلہ (ع) - ۱۶۔ مٹھنا (تھیریں) سے ایک درجہ بلند اور اس کا مٹھنا مٹھنا سے۔ دھیما نر۔ اس کا خفیف مٹھنا۔
مَدَوَدَلہ - ۵۲۔ مَدَوَدَلہ (ع) - ۱۶۔ مٹھنا (تھیریں) سے ایک درجہ بلند اور اس کا مٹھنا مٹھنا سے۔ دھیما نر۔ اس کا خفیف مٹھنا۔
مَدَوَدَلہ - ۵۳۔ مَدَوَدَلہ (ع) - ۱۶۔ مٹھنا (تھیریں) سے ایک درجہ بلند اور اس کا مٹھنا مٹھنا سے۔ دھیما نر۔ اس کا خفیف مٹھنا۔
مَدَوَدَلہ - ۵۴۔ مَدَوَدَلہ (ع) - ۱۶۔ مٹھنا (تھیریں) سے ایک درجہ بلند اور اس کا مٹھنا مٹھنا سے۔ دھیما نر۔ اس کا خفیف مٹھنا۔
مَدَوَدَلہ - ۵۵۔ مَدَوَدَلہ (ع) - ۱۶۔ مٹھنا (تھیریں) سے ایک درجہ بلند اور اس کا مٹھنا مٹھنا سے۔ دھیما نر۔ اس کا خفیف مٹھنا۔
مَدَوَدَلہ - ۵۶۔ مَدَوَدَلہ (ع) - ۱۶۔ مٹھنا (تھیریں) سے ایک درجہ بلند اور اس کا مٹھنا مٹھنا سے۔ دھیما نر۔ اس کا خفیف مٹھنا۔
مَدَوَدَلہ - ۵۷۔ مَدَوَدَلہ (ع) - ۱۶۔ مٹھنا (تھیریں) سے ایک درجہ بلند اور اس کا مٹھنا مٹھنا سے۔ دھیما نر۔ اس کا خفیف مٹھنا۔
مَدَوَدَلہ - ۵۸۔ مَدَوَدَلہ (ع) - ۱۶۔ مٹھنا (تھیریں) سے ایک درجہ بلند اور اس کا مٹھنا مٹھنا سے۔ دھیما نر۔ اس کا خفیف مٹھنا۔
مَدَوَدَلہ - ۵۹۔ مَدَوَدَلہ (ع) - ۱۶۔ مٹھنا (تھیریں) سے ایک درجہ بلند اور اس کا مٹھنا مٹھنا سے۔ دھیما نر۔ اس کا خفیف مٹھنا۔
مَدَوَدَلہ - ۶۰۔ مَدَوَدَلہ (ع) - ۱۶۔ مٹھنا (تھیریں) سے ایک درجہ بلند اور اس کا مٹھنا مٹھنا سے۔ دھیما نر۔ اس کا خفیف مٹھنا۔

مُزَجَّج - (م۔ زب۔ یج، ۶ع۔ ۱۷) جھگڑتا۔ چوکھٹا۔ وہ سطح جس کے چاروں ضلعے باہم برابر ہوں اور چاروں زاویے قائمے ہوں (۲۷) ہر چوکور چیز جس کے طول و عرض برابر ہوں (۳۱) ایک قسم کی کشتی جمع۔ مزاج۔

مُزَجَّج بَیْضِیَّانَا - (۱۶) محاورہ (۲) چار زاویے بیضیا۔ آلتی یا لتی مار کر بیضیا۔ **مُرْکُوب** - (م۔ زب۔ یب، ۶ع۔ ۱۷) ربط کیا گیا۔ بندھا ہوا۔ لگا ہوا۔ وابستہ۔ **مُرْتَجِحَا** - (م۔ زب۔ یج، ۶ع۔ ۱۷) وہ جھگڑنے سے کبھی سیرتہ ہو۔ پیٹھور (۲۷) کنگال۔

مُرْتَجِحَا - (۱۶) دفعہ مرہ (سوجا)۔

مُرْتَبِی - (م۔ زب۔ بی، ۶ع۔ ۱۷) پرورش کرنے والا۔ تربیت کرنے والا۔ سرپرست۔ پختہ پناہ۔ حامی۔

مُرْتَبِی بَنَانَا - (۱۶) محاورہ (۲) سرپرست قرار دینا۔ معاون بنانا۔ پشت پناہ ٹھہرانا۔

مُرْتَبِی بَنِنَا - (۱۷) محاورہ (۲) سرپرستی اختیار کرنا۔ حامی بنانا۔ کسی کی پرورش کا ذمہ لینا۔

مُرْتَبِی بِنَا - (۱۷) محاورہ (۲) اس صورت میں کامیابی ہو سکتی ہے کہ کوئی مرتبی ہو۔

مُرْتَبِی جُورِ پَرَا - (۱۷) محاورہ (۲) اس صورت میں کامیابی ہو سکتی ہے کہ کوئی مرتبی ہو۔

مُرْتَبِی جُورِ پَرَا - (۱۷) محاورہ (۲) اس صورت میں کامیابی ہو سکتی ہے کہ کوئی مرتبی ہو۔

مُرْتَبِی جُورِ پَرَا - (۱۷) محاورہ (۲) اس صورت میں کامیابی ہو سکتی ہے کہ کوئی مرتبی ہو۔

مُرْتَبِی جُورِ پَرَا - (۱۷) محاورہ (۲) اس صورت میں کامیابی ہو سکتی ہے کہ کوئی مرتبی ہو۔

مُرْتَبِی جُورِ پَرَا - (۱۷) محاورہ (۲) اس صورت میں کامیابی ہو سکتی ہے کہ کوئی مرتبی ہو۔

مُرْتَبِی جُورِ پَرَا - (۱۷) محاورہ (۲) اس صورت میں کامیابی ہو سکتی ہے کہ کوئی مرتبی ہو۔

مُرْتَبِی جُورِ پَرَا - (۱۷) محاورہ (۲) اس صورت میں کامیابی ہو سکتی ہے کہ کوئی مرتبی ہو۔

مُرْتَبِی جُورِ پَرَا - (۱۷) محاورہ (۲) اس صورت میں کامیابی ہو سکتی ہے کہ کوئی مرتبی ہو۔

مُرْتَبِی جُورِ پَرَا - (۱۷) محاورہ (۲) اس صورت میں کامیابی ہو سکتی ہے کہ کوئی مرتبی ہو۔

مُرْتَبِی جُورِ پَرَا - (۱۷) محاورہ (۲) اس صورت میں کامیابی ہو سکتی ہے کہ کوئی مرتبی ہو۔

مُرْتَبِی جُورِ پَرَا - (۱۷) محاورہ (۲) اس صورت میں کامیابی ہو سکتی ہے کہ کوئی مرتبی ہو۔

مُرْتَبِی جُورِ پَرَا - (۱۷) محاورہ (۲) اس صورت میں کامیابی ہو سکتی ہے کہ کوئی مرتبی ہو۔

مُرَا سَلَّتْ - (م۔ س۔ س۔ ل۔ ت، ۶ع۔ ۱۷) مٹا، باہمی خط و کتابت، ایک دوسرے کو جھگڑنا، لکھنا، پڑھنا، اطلاق، طلبی، سمن۔

مُرَا سَلَّتْ - (م۔ س۔ س۔ ل۔ ت، ۶ع۔ ۱۷) مٹا، باہمی خط و کتابت، ایک دوسرے کو جھگڑنا، لکھنا، پڑھنا، اطلاق، طلبی، سمن۔

مُرَا سَلَّتْ - (م۔ س۔ س۔ ل۔ ت، ۶ع۔ ۱۷) مٹا، باہمی خط و کتابت، ایک دوسرے کو جھگڑنا، لکھنا، پڑھنا، اطلاق، طلبی، سمن۔

مُرَا سَلَّتْ - (م۔ س۔ س۔ ل۔ ت، ۶ع۔ ۱۷) مٹا، باہمی خط و کتابت، ایک دوسرے کو جھگڑنا، لکھنا، پڑھنا، اطلاق، طلبی، سمن۔

مُرَا سَلَّتْ - (م۔ س۔ س۔ ل۔ ت، ۶ع۔ ۱۷) مٹا، باہمی خط و کتابت، ایک دوسرے کو جھگڑنا، لکھنا، پڑھنا، اطلاق، طلبی، سمن۔

مُرَا سَلَّتْ - (م۔ س۔ س۔ ل۔ ت، ۶ع۔ ۱۷) مٹا، باہمی خط و کتابت، ایک دوسرے کو جھگڑنا، لکھنا، پڑھنا، اطلاق، طلبی، سمن۔

مُرَا سَلَّتْ - (م۔ س۔ س۔ ل۔ ت، ۶ع۔ ۱۷) مٹا، باہمی خط و کتابت، ایک دوسرے کو جھگڑنا، لکھنا، پڑھنا، اطلاق، طلبی، سمن۔

مُرَا سَلَّتْ - (م۔ س۔ س۔ ل۔ ت، ۶ع۔ ۱۷) مٹا، باہمی خط و کتابت، ایک دوسرے کو جھگڑنا، لکھنا، پڑھنا، اطلاق، طلبی، سمن۔

مُرَا سَلَّتْ - (م۔ س۔ س۔ ل۔ ت، ۶ع۔ ۱۷) مٹا، باہمی خط و کتابت، ایک دوسرے کو جھگڑنا، لکھنا، پڑھنا، اطلاق، طلبی، سمن۔

مُرَا سَلَّتْ - (م۔ س۔ س۔ ل۔ ت، ۶ع۔ ۱۷) مٹا، باہمی خط و کتابت، ایک دوسرے کو جھگڑنا، لکھنا، پڑھنا، اطلاق، طلبی، سمن۔

مُرَا سَلَّتْ - (م۔ س۔ س۔ ل۔ ت، ۶ع۔ ۱۷) مٹا، باہمی خط و کتابت، ایک دوسرے کو جھگڑنا، لکھنا، پڑھنا، اطلاق، طلبی، سمن۔

مُرَا سَلَّتْ - (م۔ س۔ س۔ ل۔ ت، ۶ع۔ ۱۷) مٹا، باہمی خط و کتابت، ایک دوسرے کو جھگڑنا، لکھنا، پڑھنا، اطلاق، طلبی، سمن۔

مُرَا سَلَّتْ - (م۔ س۔ س۔ ل۔ ت، ۶ع۔ ۱۷) مٹا، باہمی خط و کتابت، ایک دوسرے کو جھگڑنا، لکھنا، پڑھنا، اطلاق، طلبی، سمن۔

مُرَا سَلَّتْ - (م۔ س۔ س۔ ل۔ ت، ۶ع۔ ۱۷) مٹا، باہمی خط و کتابت، ایک دوسرے کو جھگڑنا، لکھنا، پڑھنا، اطلاق، طلبی، سمن۔

مُرَا سَلَّتْ - (م۔ س۔ س۔ ل۔ ت، ۶ع۔ ۱۷) مٹا، باہمی خط و کتابت، ایک دوسرے کو جھگڑنا، لکھنا، پڑھنا، اطلاق، طلبی، سمن۔

مُرَا سَلَّتْ - (م۔ س۔ س۔ ل۔ ت، ۶ع۔ ۱۷) مٹا، باہمی خط و کتابت، ایک دوسرے کو جھگڑنا، لکھنا، پڑھنا، اطلاق، طلبی، سمن۔

مُرَا سَلَّتْ - (م۔ س۔ س۔ ل۔ ت، ۶ع۔ ۱۷) مٹا، باہمی خط و کتابت، ایک دوسرے کو جھگڑنا، لکھنا، پڑھنا، اطلاق، طلبی، سمن۔

مُرَا سَلَّتْ - (م۔ س۔ س۔ ل۔ ت، ۶ع۔ ۱۷) مٹا، باہمی خط و کتابت، ایک دوسرے کو جھگڑنا، لکھنا، پڑھنا، اطلاق، طلبی، سمن۔

مُرَا سَلَّتْ - (م۔ س۔ س۔ ل۔ ت، ۶ع۔ ۱۷) مٹا، باہمی خط و کتابت، ایک دوسرے کو جھگڑنا، لکھنا، پڑھنا، اطلاق، طلبی، سمن۔

مُرَا سَلَّتْ - (م۔ س۔ س۔ ل۔ ت، ۶ع۔ ۱۷) مٹا، باہمی خط و کتابت، ایک دوسرے کو جھگڑنا، لکھنا، پڑھنا، اطلاق، طلبی، سمن۔

مُرَا سَلَّتْ - (م۔ س۔ س۔ ل۔ ت، ۶ع۔ ۱۷) مٹا، باہمی خط و کتابت، ایک دوسرے کو جھگڑنا، لکھنا، پڑھنا، اطلاق، طلبی، سمن۔

جمع - مراتب -

مُرتد - (مُرتد، ۱) - مذم اسلام سے پھرا ہوا۔ منحرف مردود
ملحد۔ ملعون۔ جمع - مُرتدین -

مُرتد ہو جانا - (۱) - مص مرکب (دین سے پھر جانا۔ ملحد ہو جانا۔
کافر ہو جانا۔

مُرتکب - (مُرتکب، ۱) - صف: نشان کی گلیاں مہر لگایا گیا۔

مُرتکبی - (مُرتکب، ۱) - صف: رشوت لینے والا۔ رشوت خور۔
مُرتضوی - (مُرتضیٰ، ۱) - صف: حضرت علی مرتضیٰ سے نسبت
رکنے والا۔ حضرت علی مرتضیٰ کی طرف منسوب۔

مُرتضیٰ - (مُرتضیٰ، ۱) - مذم پسندیدہ۔ مقبول (۲) - حضرت
علی کا لقب۔

مُرتعش - (مُرتعش، ۱) - صف: ارتعاش کرنے والا کھینچنے والا۔

مُرتفیع - (مُرتفع، ۱) - صف: اونچا بلند۔

مُرتکب - (مُرتکب، ۱) - صف: ارتکاب کرنے والا۔ کسی فعل کا
کرنے والا (۲) - قصور وار۔ مجرم۔

مُرتل - (مُرتل، ۱) - صف: نہایت کمزور۔ مرہل۔

مُرتلو - (۱) - مذم اجل۔ موت۔ قضا۔

مُرتسین - (مُرتسین، ۱) - مذم رکن رکینے والا گرد رکھنے والا۔

مُرتسین کا بعض - (۱) - صف: ہونے مال یا جانیدار پر قبضہ رکھنے والا گردوار۔
مُرتے - (مُرتے، ۱) - صفت: مڑا کی جمع۔

مُرتے جیتے - (۱) - صفت: تابع فعل (جس طرح ہو سکا۔ جوں توں کر کے۔

مُرتے جیتے بھلی طرح -
مُرتے جیتے بکسر ہونا - (۱) - محاورہ: کسی کی کسی طرح زندگی کے
دن پورے ہونا۔

مُرتے دم - (۱) - مذم آخر وقت۔ حالت نزاع میں۔

مُرتے کو مارنا - (۱) - محاورہ: مصیبت ندمہ کو اور مصیبت میں ڈالنا
غریبوں کو ستانا۔

مُرتے کو ماریں شاہ مدار - (۱) - صف: غریب ہی کو ہر ایک
ستاتا ہے۔

مُرتے مرنے - (۱) - محاورہ: ساری زندگی - آخری وقت تک
اسی حالت میں۔

مُرتے مرنے - (۱) - محاورہ: یہاں تک نسبت پہنچی کہ مر گیا۔

مُرتیلیا - (مُرتی، ۱) - صف: مڑا ہوا (۲) - محاورہ: لاف زور بہت کمزور۔
بے حد ناتواں (۳) - صفت: سست۔ کاہل۔

مُرتینے - (مُرتی، ۱) - صف: مڑا ہوا (۲) - محاورہ: مڑا ہوا۔

مُرتیمہ - (مُرتی، ۱) - صف: مڑا ہوا (۲) - محاورہ: مڑا ہوا۔
بیان کیے گئے ہوں (۳) - صف: وہ نظر میں نہیں بندھتا کہ بلا کے مصائب اللہ
شہادت کا ذکر ہو (۴) - محاورہ: مڑا ہوا۔ مڑا ہوا۔

مُرتیمہ پڑھنا - (۱) - محاورہ: مڑا ہوا (۲) - محاورہ: مڑا ہوا۔ مڑا ہوا۔
مڑا ہوا کے اوصاف بیان کر کے مڑا ہوا۔

مُرتیمہ خواں - (۱) - صف: مڑا ہوا (۲) - محاورہ: مڑا ہوا۔ مڑا ہوا۔
مڑا ہوا کے اوصاف بیان کر کے مڑا ہوا۔

مُرتیمہ خواں - (۱) - صف: مڑا ہوا (۲) - محاورہ: مڑا ہوا۔ مڑا ہوا۔

مُرتیمہ خواں کرنا - (۱) - محاورہ: مڑا ہوا (۲) - محاورہ: مڑا ہوا۔

مُرتیمہ خواں - (۱) - صف: مڑا ہوا (۲) - محاورہ: مڑا ہوا۔ مڑا ہوا۔

مُرتیمہ خواں - (۱) - صف: مڑا ہوا (۲) - محاورہ: مڑا ہوا۔ مڑا ہوا۔

مُرتیمہ خواں - (۱) - صف: مڑا ہوا (۲) - محاورہ: مڑا ہوا۔ مڑا ہوا۔
مڑا ہوا کے اوصاف بیان کر کے مڑا ہوا۔

مُرتیمہ خواں - (۱) - صف: مڑا ہوا (۲) - محاورہ: مڑا ہوا۔ مڑا ہوا۔
مڑا ہوا کے اوصاف بیان کر کے مڑا ہوا۔

مُرتیمہ خواں - (۱) - صف: مڑا ہوا (۲) - محاورہ: مڑا ہوا۔ مڑا ہوا۔

مُرتیمہ خواں - (۱) - صف: مڑا ہوا (۲) - محاورہ: مڑا ہوا۔ مڑا ہوا۔

مُرتیمہ خواں - (۱) - صف: مڑا ہوا (۲) - محاورہ: مڑا ہوا۔ مڑا ہوا۔
مڑا ہوا کے اوصاف بیان کر کے مڑا ہوا۔

مُرتیمہ خواں - (۱) - صف: مڑا ہوا (۲) - محاورہ: مڑا ہوا۔ مڑا ہوا۔
مڑا ہوا کے اوصاف بیان کر کے مڑا ہوا۔

مُرتیمہ خواں - (۱) - صف: مڑا ہوا (۲) - محاورہ: مڑا ہوا۔ مڑا ہوا۔
مڑا ہوا کے اوصاف بیان کر کے مڑا ہوا۔

مُرتیمہ خواں - (۱) - صف: مڑا ہوا (۲) - محاورہ: مڑا ہوا۔ مڑا ہوا۔
مڑا ہوا کے اوصاف بیان کر کے مڑا ہوا۔

مُرتیمہ خواں - (۱) - صف: مڑا ہوا (۲) - محاورہ: مڑا ہوا۔ مڑا ہوا۔

مُرتیمہ خواں - (۱) - صف: مڑا ہوا (۲) - محاورہ: مڑا ہوا۔ مڑا ہوا۔
مڑا ہوا کے اوصاف بیان کر کے مڑا ہوا۔

مُرتیمہ خواں - (۱) - صف: مڑا ہوا (۲) - محاورہ: مڑا ہوا۔ مڑا ہوا۔

مُرتیمہ خواں - (۱) - صف: مڑا ہوا (۲) - محاورہ: مڑا ہوا۔ مڑا ہوا۔
مڑا ہوا کے اوصاف بیان کر کے مڑا ہوا۔

مُرتیمہ خواں - (۱) - صف: مڑا ہوا (۲) - محاورہ: مڑا ہوا۔ مڑا ہوا۔
مڑا ہوا کے اوصاف بیان کر کے مڑا ہوا۔

مُرتیمہ خواں - (۱) - صف: مڑا ہوا (۲) - محاورہ: مڑا ہوا۔ مڑا ہوا۔
مڑا ہوا کے اوصاف بیان کر کے مڑا ہوا۔

مُرتیمہ خواں - (۱) - صف: مڑا ہوا (۲) - محاورہ: مڑا ہوا۔ مڑا ہوا۔
مڑا ہوا کے اوصاف بیان کر کے مڑا ہوا۔

مُرتیمہ خواں - (۱) - صف: مڑا ہوا (۲) - محاورہ: مڑا ہوا۔ مڑا ہوا۔
مڑا ہوا کے اوصاف بیان کر کے مڑا ہوا۔

مُرتیمہ خواں - (۱) - صف: مڑا ہوا (۲) - محاورہ: مڑا ہوا۔ مڑا ہوا۔
مڑا ہوا کے اوصاف بیان کر کے مڑا ہوا۔

مُرتیمہ خواں - (۱) - صف: مڑا ہوا (۲) - محاورہ: مڑا ہوا۔ مڑا ہوا۔
مڑا ہوا کے اوصاف بیان کر کے مڑا ہوا۔

مُرتیمہ خواں - (۱) - صف: مڑا ہوا (۲) - محاورہ: مڑا ہوا۔ مڑا ہوا۔
مڑا ہوا کے اوصاف بیان کر کے مڑا ہوا۔

مُرچاپن - ۱۰۷-۱- مذ ۲ سر زوری - سینہ زوری - مرچوں سے فیکری سی
 مند - ہٹیلین -

مُرچاپن دکھانا - ۱۱- محاورہ ۲ مند چنے فیروز کی حرکتیں کرنا - سینہ
 زوری دکھانا - سر زوری کرنا -

مُرچلنا - ۱۰۶- مص ۱ منہ کے قریب ہونا - مرنے لگانا -

مُرچنت - (Merchant) - (مُرچنٹ، ۱۰۶-۱- مذ) سوداگر - تاجر -

مُرچنگ - (مُرچنگ ۱۰۶-۱- مذ) ایک باجر جسے منہ سے بکر کے انگلیوں
 سے بجاتے ہوں -

مُرچیا دیو - (مُرچیا - یا - دیو ۱۰۶-۱- صف) اداوار پستہ قد دیو ۲ بہت
 تیز مزاج اور غصیل آدمی -

مُرچیا - (مُرچیا - یا - ۱۰۶) اشباح - آفرین کیا کہنا - داہ ۱۰ - سبحان اللہ -

مُرچلہ - (مُرچلہ - ۱۰۶-۱- مذ) سفر کی جگہ کی جگہ (۲) دن بھر کا سفر

منزل - بارہ میل کی مسافت ۲، وہ جگہ جہاں سفر کے بعد

مسافر تھک کر س (۱) ٹیسی منزل (۵) درجہ - مرتبہ ۱۹، سفر کوچ

۱۰۶-۱- صف) کو ایک قسم کی عمدت جس پر پیٹھ کر چنگ کرتے تھے

جمع - مرامل -

مُرچلے کرنا - ۱۰۶- محاورہ ۲ منزل پوری کرنا ۲ کام پٹھانا - معاملہ ٹھانا

اہم کام کرنا -

مُرچلٹ - (مُرچ - منٹ ۱۰۶-۱- مذ) مہربانی رحم - کرم - عنایت

فازش - الطاف - جمع - مرامل -

مُرچمت فرمانا - ۱۰۶- مص مرکب ۲ عنایت کرنا - کرم کرنا - مہربانی فرمانا -

مُرچمت نامہ - (مُرچمت - ۱۰۶-۱- مذ) عنایت نامہ - فائز نامہ -

مُرچوم - (مُرچوم - ۱۰۶-۱- صف) ہند ارمت کیا گیا - ہتھیار کیا - مغفور - جنتی ۲،

امرا - ہزارت شدہ - بتوتی - جمع - مرچومین -

مُرچومہ - (مُرچومہ - ۱۰۶-۱- صف) ارمت کی گئی - مغفورہ ۲، مری ہوئی

۱۰۶-۱- صف) مرچوم کی تائیت -

مُرچخص - (مُرچخص - ۱۰۶-۱- صف) ارمت کیا گیا - مہارت دیا گیا

دوا نہ کیا گیا -

مُرچخص ہونا - ۱۰۶- مص مرکب ۲ ارمت ہونا چل پڑنا - سدھارنا -

مُرچخم - (مُرچخم - ۱۰۶-۱- صف) نرم کیا گیا ۲، وہ کلہ جس کا آفری حرف

اگر دیا گیا ہو جیسے گوز، مرغے، "گوزن" کا اور "مال"

مرغے سے "ماند" کا -

مُرچوف - (مُرچوف - مذکر ۲، آدمی - بشر - شخص - نش ۳، خاوند

شوہر چتی ۲، بہادر - دلیر - فصیح - سورما - جمع - مردماں - مرداں -

مُرچوادی - (مُرچوادی - شریف - جھلا مانس - ہند

مُرچوادی - (مُرچوادی - شریف - جھلا مانس - ہند

مُرچوادی - (مُرچوادی - شریف - جھلا مانس - ہند

مُرچوادی - (مُرچوادی - شریف - جھلا مانس - ہند

نشو و - ۱۰۶-۱- صف) آدمی کو بہت نہ ہارنی چاہیے - ہر شکل آسان

ہو جاتی ہے -

مرد باید کہ گھر داند - (مرد باید کہ گھر داند - گھر نوشت است پند پر

دیوار - ۱۰۶-۱- صف) عقل مند ہے جو دیوار پر لکھی ہوئی نصیحت کو

بھی حاصل کرے -

مرد بچہ - ۱۰۶-۱- صف) دلیر - ہواغز - بہادر -

مرد پٹھا - ۱۰۶- محاورہ ۲ جرأت دکھانا - جوصلہ دکھانا -

مرد پس - ۱۰۶-۱- مذ) مرد کی خاصیت - آدمیت - انسانیت -

مرد تازہ ولایت - ۱۰۶-۱- مذ) جو شخص حال ہی میں ولایت سے آیا ہو ۲،

(کھانا،) وہ شخص جو اپنے ملک کی بھائیوں سے تودور بھاگے اور غیر ملکوں

کی نقل کرے -

مردوں پر نشو و - (مردوں پر نشو و - ۱۰۶-۱- صف) بڑھاپے میں مری

بڑھ جاتی ہے -

مرد حق - ۱۰۶-۱- مذ) دلی عارف - یار سا -

مرد خندا - ۱۰۶-۱- مذ) خدا شناس - پریمیز کار ۲، شریف بزرگ کی شان میں

بھی کہتے ہیں خواہ وہ زاہد و مرتاض ہو یا نہ ہو ۳، حسن کلام کے لیے

بھلے مانس کی جگہ اور کسی طنز کے استعمال کرتے ہیں - جیسے مرد خدا

تم کیسے بڑول ہو -

مرد عیب - ۱۰۶-۱- مذ) ایک عیب ہستی جو تیزی سے گرد چکر لگاتی

ہے -

مرد کار آمد - ۱۰۶-۱- مذ) وہ شخص جو کسی کام کو بخوبی انجام دے -

مرد کی بات کا قول - (مرد کی بات کا قول - ۱۰۶-۱- صف) مانتا رہتا ہے -

مرد کی ذات - (مرد کی ذات - ۱۰۶-۱- صف) مرد کی جنس - نر - مذکر -

مرد کی صورت نہ دیکھنا - ۱۰۶- محاورہ ۲، عورت کا مرد کے پاس نہ جانا -

عورت کا مجبور رہنا -

مرد کی موت نامہ دے - (مرد کی موت نامہ دے - ۱۰۶-۱- صف) اس وقت لہجے

پہن جیسا کہ زور اور بہت تہمت کسی بہادر کو مارے -

مرد مانس - (مرد مانس - ۱۰۶-۱- صف) مرد کی ذات - مرد - نش - پیرس -

مرد مانس گھر ہی چلے - ۱۰۶- مقولہ ۲، شریف آدمی وہی ہے جو گھری میں

بہے - یعنی آوارہ انداز بچپن نہ ہو -

مرد مرے نام کو نامہ دے - (مرد مرے نام کو - ۱۰۶-۱- صف) شریف اور بہادر

لوگ عزت و شہرت کی خاطر جان تک دے دیتے ہیں - گرو ذلیل آدمی روٹی

کے لیے خواں لگتا ہے -

مرد معقول - ۱۰۶-۱- مذ) جھلا مانس - شریف - ہند - شائستہ - ذی فہم - بھدار

دانہ زریک -

مرد میدان - ۱۰۶-۱- صف) بہادر - جوی - دلیر - سورما -

مرد فزون - ۱۰۶-۱- مذ) مرد و عورت - عام لوگ -

مرد ہونا - ۱۰۶- محاورہ ۲، بہادر ہونا - دلیر ہونا -

مرداں - (مرداں - ۱۰۶-۱- صف) پانچواں جنس - مہینہ جو گھنٹی میں گنت

اور مہینہ میں پانچواں سے ملتا ہے - ۲، ہر قسمی مہینہ کا ساتواں

آٹھواں دن۔

مردار۔ مردار ہفت صفت (۱) موت سے مراد ہوا رہا ناپاک نہیں حرام (۳) شہزادہ سیلے جان دم، ہنسی تہمت کھارت کاکلمہ جو بحالت ناراضگی کسی کو کہا جاتا ہے (۵) فاشتر۔ نلاق۔ ناکار۔

مردار پڑ جانا۔ ۱۶۔ محاورہ ہے جان ہو جانا

مردار خوار۔ وہ جو مردہ جانوروں کو کھاتے جیسے گدھ چیل کو وغیرہ۔

مردار سنگ۔ ۱۔ مذم ایک دوکان نام جو پتھر کی ماہرہ ہوتی ہے
مردار مال۔ ۱۔ مذم حرام مال۔ ناجائز دولت۔ خلاف شرع حاصل کیا، بوجہ مال۔

مردار ہڈی پھاڑنا۔ ۱۶۔ محاورہ حرام مال پر نگرار کرنا۔

مردار ہو جانا۔ ۱۶۔ محاورہ حرام، بوجہ مال۔ ناجائز ہو جانا۔ ذبح کے قابل نہ رہنا۔

مردارسی۔ ۱۔ مذم۔ داری، ۱۶۔ مذم، چھپ کی۔ چل پاسہ۔

مردا۔ مردی۔ ۱۔ مذم۔ داری، ۱۶۔ مذم، چھپ کی۔ چل پاسہ۔

مردان۔ ۱۔ مذم۔ داری، ۱۶۔ مذم، چھپ کی۔ چل پاسہ۔

مردان خدا۔ ۱۔ مذم۔ خدا کے خاص بندے۔ باخدا لوگ۔

(۲) بہادر۔

مردانِ علوی۔ سبتارے۔

مردانچی۔ ۱۔ مذم۔ داری، ۱۶۔ مذم، چھپ کی۔ چل پاسہ۔

مردانہ۔ ۱۔ مذم۔ داری، ۱۶۔ مذم، چھپ کی۔ چل پاسہ۔

مردانہ والا۔ مرد کے مانند (۲) دلیری سے۔ جرات سے (۳) مکان

کا وہ حصہ جہاں مرد بیٹھتے ہوں۔

مردانہ بھینس۔ ۱۶۔ مذم۔ مردوں کا سالیاس مرد کا روپ۔

مردانہ جوڑا۔ ۱۶۔ مذم۔ مردوں کے بیٹنے کا لباس۔

مردانہ جال۔ ۱۶۔ مذم۔ مردوں کی کسی رفتار۔

مردانہ کا قم۔ ۱۶۔ مذم۔ بہت اور بہادری کا کام۔

مردانہ مکان۔ ۱۶۔ مذم۔ وہ مکان جس میں مرد رہتے ہوں۔ مردانہ

پیشک۔

مردانہ وار۔ ۱۶۔ مذم۔ مردوں کی طرح۔ بہادری کی مانند۔ دلیرانہ۔

مردانہ ہونا۔ ۱۶۔ محاورہ گھر کی عورتوں کا پردے میں چلنا جانا۔ گھریں

پردہ ہو جانا۔

مردانی۔ ۱۔ مذم۔ داری، ۱۶۔ مذم، چھپ کی۔ چل پاسہ۔

مردانہ ہونے کے مشابہت سے (۲) جرات والی عورت۔ بہادر خاتون۔ مردوں کے

سے کام کرنے والی عورت۔ چالاک عورت۔

مردانیت۔ ۱۔ مذم۔ داری، ۱۶۔ مذم، چھپ کی۔ چل پاسہ۔

مردانے۔ ۱۔ مذم۔ داری، ۱۶۔ مذم، چھپ کی۔ چل پاسہ۔

مردانے والا۔ ۱۶۔ مذم، چھپ کی۔ چل پاسہ۔

مردک۔ ۱۔ مذم۔ داری، ۱۶۔ مذم، چھپ کی۔ چل پاسہ۔

مردگان۔ ۱۔ مذم۔ داری، ۱۶۔ مذم، چھپ کی۔ چل پاسہ۔

مردم۔ ۱۔ مذم۔ داری، ۱۶۔ مذم، چھپ کی۔ چل پاسہ۔

مردم آبی۔ ۱۔ مذم۔ داری، ۱۶۔ مذم، چھپ کی۔ چل پاسہ۔

مردم آزار۔ ۱۔ مذم۔ داری، ۱۶۔ مذم، چھپ کی۔ چل پاسہ۔

مردم آمیز۔ ۱۔ مذم۔ داری، ۱۶۔ مذم، چھپ کی۔ چل پاسہ۔

مردم آفتاب۔ ۱۔ مذم۔ داری، ۱۶۔ مذم، چھپ کی۔ چل پاسہ۔

مردم آفتاب۔ ۱۔ مذم۔ داری، ۱۶۔ مذم، چھپ کی۔ چل پاسہ۔

مردم آفتاب۔ ۱۔ مذم۔ داری، ۱۶۔ مذم، چھپ کی۔ چل پاسہ۔

مردم آفتاب۔ ۱۔ مذم۔ داری، ۱۶۔ مذم، چھپ کی۔ چل پاسہ۔

مردم آفتاب۔ ۱۔ مذم۔ داری، ۱۶۔ مذم، چھپ کی۔ چل پاسہ۔

مردم آفتاب۔ ۱۔ مذم۔ داری، ۱۶۔ مذم، چھپ کی۔ چل پاسہ۔

مردم آفتاب۔ ۱۔ مذم۔ داری، ۱۶۔ مذم، چھپ کی۔ چل پاسہ۔

مردم آفتاب۔ ۱۔ مذم۔ داری، ۱۶۔ مذم، چھپ کی۔ چل پاسہ۔

مردم آفتاب۔ ۱۔ مذم۔ داری، ۱۶۔ مذم، چھپ کی۔ چل پاسہ۔

مردم آفتاب۔ ۱۔ مذم۔ داری، ۱۶۔ مذم، چھپ کی۔ چل پاسہ۔

مردم آفتاب۔ ۱۔ مذم۔ داری، ۱۶۔ مذم، چھپ کی۔ چل پاسہ۔

مردم آفتاب۔ ۱۔ مذم۔ داری، ۱۶۔ مذم، چھپ کی۔ چل پاسہ۔

مردم آفتاب۔ ۱۔ مذم۔ داری، ۱۶۔ مذم، چھپ کی۔ چل پاسہ۔

مردم آفتاب۔ ۱۔ مذم۔ داری، ۱۶۔ مذم، چھپ کی۔ چل پاسہ۔

مردم آفتاب۔ ۱۔ مذم۔ داری، ۱۶۔ مذم، چھپ کی۔ چل پاسہ۔

مردم آفتاب۔ ۱۔ مذم۔ داری، ۱۶۔ مذم، چھپ کی۔ چل پاسہ۔

مردم آفتاب۔ ۱۔ مذم۔ داری، ۱۶۔ مذم، چھپ کی۔ چل پاسہ۔

مردم آفتاب۔ ۱۔ مذم۔ داری، ۱۶۔ مذم، چھپ کی۔ چل پاسہ۔

مردم آفتاب۔ ۱۔ مذم۔ داری، ۱۶۔ مذم، چھپ کی۔ چل پاسہ۔

مردم آفتاب۔ ۱۔ مذم۔ داری، ۱۶۔ مذم، چھپ کی۔ چل پاسہ۔

مردم آفتاب۔ ۱۔ مذم۔ داری، ۱۶۔ مذم، چھپ کی۔ چل پاسہ۔

مردم آفتاب۔ ۱۔ مذم۔ داری، ۱۶۔ مذم، چھپ کی۔ چل پاسہ۔

مردم آفتاب۔ ۱۔ مذم۔ داری، ۱۶۔ مذم، چھپ کی۔ چل پاسہ۔

مردم آفتاب۔ ۱۔ مذم۔ داری، ۱۶۔ مذم، چھپ کی۔ چل پاسہ۔

مردم آفتاب۔ ۱۔ مذم۔ داری، ۱۶۔ مذم، چھپ کی۔ چل پاسہ۔

مردم آفتاب۔ ۱۔ مذم۔ داری، ۱۶۔ مذم، چھپ کی۔ چل پاسہ۔

مردم آفتاب۔ ۱۔ مذم۔ داری، ۱۶۔ مذم، چھپ کی۔ چل پاسہ۔

مردم آفتاب۔ ۱۔ مذم۔ داری، ۱۶۔ مذم، چھپ کی۔ چل پاسہ۔

مردم آفتاب۔ ۱۔ مذم۔ داری، ۱۶۔ مذم، چھپ کی۔ چل پاسہ۔

مردم آفتاب۔ ۱۔ مذم۔ داری، ۱۶۔ مذم، چھپ کی۔ چل پاسہ۔

مردم آفتاب۔ ۱۔ مذم۔ داری، ۱۶۔ مذم، چھپ کی۔ چل پاسہ۔

مردم آفتاب۔ ۱۔ مذم۔ داری، ۱۶۔ مذم، چھپ کی۔ چل پاسہ۔

مردم آفتاب۔ ۱۔ مذم۔ داری، ۱۶۔ مذم، چھپ کی۔ چل پاسہ۔

مردہ دیکھنا۔ (۱۷- مجاوردہ) سخت قسم، مرا ہوا دیکھنا۔ جنازہ دیکھنا جیسے ہمارا مردہ دیکھ کر جو آج جلتے۔
مردہ سا پڑا رہنا۔ (۱۷- مجاوردہ) سست پڑا رہنا۔
مردہ بینگ۔ دیکھنے مردار بینگ۔
مردہ شو۔ (۷- ف)۔ (۱۰- مذ) مردہ نہلانے والا۔ میت کو غسل دینے والا۔ غسل۔
مردہ شو کے حوالے۔ (۱۱- بد دعا) مرتے موت آجائے۔
مردہ شو لے جاتے۔ (۱۱- بد دعا) میت نہلانے والا اٹھا لے جاتے۔
غسل کے سیردو۔ دنیا سے رخصت ہو جاتے۔
مردہ کر دینا (کر دینا)۔ (۱۷- مجاوردہ) مرتے کے قریب پہنچا دینا، بہت کمزور کر دینا، (۲) مار ڈالنا۔ ذبح کر دینا۔
مردے سے بد کر۔ (۱۱- صف) بہت کمزور یا ضعیف۔
مردوں سے شرط باندھ کر سونا۔ (۱۷- مجاوردہ) غیر معمولی دیر تک سونا بہت ناخوش ہونا۔
مردوں کی ہڈیاں اٹھینا۔ (۱۷- مجاوردہ) مرے ہوئے لوگوں کی باتیں نکالنا، (۲) مردوں کو خزانے کے ساتھ یاد کرنا۔ اساتذہ سلف کے کلام پر نکتہ چینی کرنا، (۲) اگلے لوگوں کی پیروی کرنا۔ پڑانے مضمین باندھنا۔
مردوں کی ہڈیاں پھونکنا۔ (۱۷- مجاوردہ) بزرگوں کے کارناموں پر فخر کرنا۔
مردے پر تین دن بھاری۔ (۱۷- مثل) مردے کی پہلے تین دن بہت سخت ہوتے ہیں، مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ تین دن تک مردے سے حساب و کتاب ہوتا رہتا ہے۔
مردے جھلانا۔ (۱۷- مجاوردہ) مردے زندہ کرنا۔
مردے پر چیلے سو من مٹی ویسے ہزار من۔ (۱۷- مثل) جب مصیبت ہی ہے تو جیسی تھوڑی ویسی بہت۔
مردے سے بد کر۔ (۱۷- صف) بہت ضعیف اور کمزور۔
مردے کا مال۔ (۱۷- مذ) (۱) مال متروکہ، (۲) لاوارث مال، (۳) بہت سستا مال۔
مردے کو پیٹھ کر روتے ہیں اور روزی کو کھڑے ہو کر۔ (۱۷- مثل) روزی کا خم مرتے کے غم سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔
مردے کی نیند سونا۔ (۱۷- مجاوردہ) بہت ناخوش ہو کر سونا۔
مردے سے مردوں کی جمع۔ بہت سے مردے۔
مردو ہا۔ (مردو) (۱) ف۔ (۱) مذ) گاؤں کا حاکم چوہدریوں کا سردار قاصدوں کا افسر۔ (۲) افلاں کا ایک قبیلہ۔ (۳) میری بگا کھلاتے ہیں۔
مردی۔ (مردی) (۷- ف)۔ (۱) صحت) مردانگی، (۲) ہمداری، (۳) آدمیت، انسانیت (۴) قربت باہ بوجلیت۔
مرد ہونا۔ (مرد) (۷- نا)۔ (۷- مص) مرد ہونا۔ موت آجانا، (۲) مجازاً، کام میں دیر لگانا۔ جہاں جانا وہیں بیٹھ رہنا، (۳) بے خبر ہونا۔
سور ہونا۔

پڑ جانا۔

مردنی چھا جانا۔ (۱۷- مجاوردہ) جسے پر موت کے آثار ظاہر ہونا۔
مردنی میں جانا۔ (۱۷- مجاوردہ) مردہ کی تجزیہ و تکلیف میں شریک ہونا۔
مردو۔ (مردو) (۱) مذ۔ (۱) مذ) مرد کی تصویر، مردک، (۲) غیر شخص مرد لگانا۔
مردو۔ (مردو) (۱) صحت) روک لگنا۔ (۲) راندہ ہونا۔ بے عزت کیا گیا طعن ناپاکار، (۲) ناپائے۔ بد نصیب ہونا۔
مردو درگاہ خداوندی۔ خدا کی درگاہ سے راندہ ہونا۔ شیطان ابلیس۔
مردو و الشہادۃ۔ (۷- ع)۔ (۱) مذ) وہ شخص جس کی گواہی ناقابل قبول ہو۔
مردوں بوجانا۔ (۱۷- مجاوردہ) باہر کیا جانا۔ ملعون۔
مردے از غیب بروں آید کارے بکنہ۔ (۷- ف)۔ (مثل) جب کوئی کام ہونے والا ہوتا ہے تو غیب سے اس کے اسباب پیدا ہو جاتے ہیں۔
مردہ۔ (مردہ) (۷- ف) صحت) بے جان۔ بے روح۔ مرا ہوا۔ فوت شدہ۔ (۲) معنی (۲) مجازاً، کمزور۔ (۳) ناخوش۔ (۴) ضعیف۔ (۵) ملاغز۔ (۶) بلا۔ (۷) بہت بوڑھا۔ (۸) نہایت غم سے رسیدہ، (۹) مر جھلا ہوا۔ (۱۰) افسردہ، (۱۱) لاش۔ (۱۲) جنازہ۔
مردہ اٹھانا۔ (۱۷- مجاوردہ) تجزیہ و تکلیف کرنا۔ گور گڑھا کرنا۔ میت کی رسمیں ادا کرنا۔
مردہ اٹھنا۔ (۱۷- مجاوردہ) جنازہ اٹھنا۔
مردہ یاد۔ (۷- لغو) مرتے۔ یاد ہو جاتے۔
مردہ بن جانا۔ (۱۷- مجاوردہ) بے جان ہونا، بہت کمزور ہونا۔
مردہ بہ دست زندہ۔ (۱۷- مثل) مردہ زندہ کے ہاتھ میں۔ جب آدمی مر گیا تو زندہ ہو چاہے اس کا حال کسے۔ وہ بے اختیار ہوتا ہے، بے کس ادا ہے اس کے حق میں یہ بولتے ہیں۔
مردہ بھاری ہونا۔ (۱۷- مجاوردہ) میت کا بوجھل ہونا۔ لاش کا وزن ہونا۔ عوام میں مشہور ہے کہ جو نہایت گنہگار مرتا ہے۔ اس کی لاش وزنی ہوجاتی ہے۔ اس وجہ سے بہت گنہگار کے مرنے پر اطلاق ہونے لگا۔
مردہ پسند پرست۔ (۷- صف) مرنے کے بعد قدر کرنا والا۔
مردہ چلانا۔ (۱۷- مص) ایک میت کو چھو کر میت کو داغ دینا۔ ہندوؤں کی رسم جو کہ لاش کو چلاتے ہیں۔
مردہ خراب ہونا۔ (۱۷- مجاوردہ) میت کی مٹی پلید ہونا۔ مردہ کا رسوا ہونا۔
مردہ نوار۔ (۷- ف)۔ (صف) مردہ کھانے والا، (۲) نصبت کرنے والا۔
مردہ دل۔ (۷- ف)۔ (صف) اُداس۔ (۲) زردہ۔ (۳) سنجیدہ۔ (۴) دلگیر۔ (۵) غمگین۔ (۶) سست۔ (۷) کابل۔ (۸) کمزور، (۹) بے ذوق۔
مردہ دوش میں جائے یا ہمیشہ میں اپنے حلوے انداز سے کام۔ (۱۷- مثل) خود غرض کو اپنے مطلب سے کام خواہ کوئی نہ کہے۔
کون تیرے بیٹے۔

مرز - (ت - ۱ - مذ) زمین - قابل کاشت زمین (۲) حد - سرحد -
 مرزبان - (ت - ۱ - مذ) زمین دار - حاکم زمین (۳) سرحد کا افسر - سرحدی
 صوبہ گورنر (۳) صوبہ دار حاکم (۴) شاہ - قہرزاہ - آتش پرستوں
 کا سردار - جمیع مرزبانان -
 مرزبوم - (ت - ۱ - مذ) پیدائش کی جگہ (۲) ملک کی حدود - (۳)
 مملکت - سلطنت -
 مرزا - (مرز) (ت - ۱ - مذ) میرزا کا مخفف (۲) امیرزادہ - شہزادہ (۳) مغلوں
 کا لقب (۴) نعل زادہ (۳) خاندان مغلیہ کے شہزادوں کا لقب -
 مرزا پھویا - (ت - ۱ - صفت) نہایت نازک اندام آدمی - لاغر - ڈیلا - پتلا - آرام
 طلب - تن آسان آدمی -
 مرزا جھیللا - (ت - ۱ - صفت) آجیل جھیللا - رگیلا - سجلا -
 مرزا منشی - (ت - ۱ - مذ) نازک طبی - نازک مزاجی -
 مرزا ہمیں - (ت - ۱ - صفت) اکمال تک بدن - ڈیلا - پتلا -
 مرزانی - (دور - ز) (ای) (ت - ۱ - مذ) شہزادگی (۲) حکومت کی بڑبیکر
 خروار (۳) حکومت - سرداری (۴) صدی - کمری - واسکٹ - نیم ستن
 (۵) مرزا غلام احمد قادیاں کی پیدو -
 مرزانی گزنا - (ت - ۱ - محاورہ) بیکر کرنا - غرور کرنا -
 مرزانی کی لوبو - (ت - ۱ - مذ) حکومت کا نشہ - سلطنت کا گھنڈہ -
 مرزائیت - (دور - ز) (ای) (ت - ۱ - صفت) احمدیت - مرزا غلام احمد
 قادیاں کو ماننے والا فرقہ -

مرزوق - (مرز - ذوق) (ت - ۱ - صفت) لذت دیا گیا -
 مرزونی - (دور - ز) (ای) (ت - ۱ - مذ) مرزانی کا مخفف - پوری یا ادھی
 آستیں کی کمری -
 مرسل - (مرز - سل) (ت - ۱ - مذ) ارسال کیا گیا - بھیجا ہوا - رسول - پیغمبر - نبی -
 جمع - مرسلین (۲) حدیث کی ایک قسم -
 مرسل اللہ - (ت - ۱ - مذ) جس کی طرف بھیجا جائے -
 مرسل - (مرز - سل) (ت - ۱ - مذ) ارسال کرنا والا - بھیجنے والا - خط بھیجنے والا -
 مرسلہ - (مرز - سل) (ت - ۱ - صفت) بھیجا ہوا - فرستادہ - ارسال کیا ہوا
 (۲) گلے کا آہر -
 مرسلہ بند - (ت - ۱ - مذ) ہار کا ٹکڑا -
 مرسلین - (مرز - سل) (ت - ۱ - مذ) مرسل کی جمع - بہت سے رسول
 بہت سے پیغمبر -
 مرسوک - (ت - ۱ - صفت) تلچھٹ - تہ میں بٹھا ہوا -
 مرسوم - (مرز - سوم) (ت - ۱ - صفت) رسم ڈالا گیا - قاعدہ باندھا گیا (۲) نشان
 کیا گیا (۳) خواہ - وظیفہ - مشاہرہ -
 مرشد - (مرز - شد) (ت - ۱ - مذ) ہدایت کرنے والا - مسیحی راہ بتانے
 والا - رہ نما - ہادی - (۲) استاد - چالاک - عیار - خوشیار - شریعہ فخری
 دغا باز - پاکھنڈی - گرد گھنٹال -

مرشد زادہ - (ت - ۱ - مذ) پیر کا بیٹا (۲) بادشاہ کا رشتہ دار -
 مرشدی - (مرز - ش) (ت - ۱ - مذ) پیر ہونے کا پیشہ (۲) راہ راست لگانا -
 ہدایت کرنا (۳) میرا پیر -
 مرصد - (ت - ۱ - مذ) امید گاہ - گمات (۲) صد گاہ -
 مرصع - (م - رض) (ت - ۱ - صفت) جڑوا - مٹی یا جواہرات جڑوا ہوا -
 (۲) آراستہ (۳) وہ شریفانہ نظر جس میں ہر لفظ کے مقابلے میں دوسرا لفظ اسی
 معنی یا قافیے کا ہو (۴) خوش بانی سے آراستہ -
 مرصع رقم - (ت - ۱ - صفت) نہایت خوبصورت لکھنے والا نہایت
 خوشما لکھنے والے کا لقب کی تعریف -
 مرصع زبان - (ت - ۱ - صفت) نہایت خوش بیان -
 مرصع ساز - (ت - ۱ - صفت) لکھنے یا جواہرات جڑوانے
 والا - جڑوا -
 مرصع سازی - (ت - ۱ - صفت) جڑوانے کا کام - جڑوات -
 مرصع نگار - (ت - ۱ - صفت) بہت خوش قلم - نہایت خوشخط لکھنے والا -
 مرصوص - (مرز - صوص) (ت - ۱ - صفت) بہت مضبوط کیا ہوا - راتک
 پایا ہوا - سیدھ پایا ہوا -
 مرصوصہ - (مرز - صوص) (ت - ۱ - صفت) بہت مضبوط کی ہوئی - نہایت
 کٹی ہوئی - مرصوص کی تائیت -
 مرض - (م - رض) (ت - ۱ - مذ) بیماری - دکھ - درگ - آزار (۲) علت - عادت
 (۳) راجع - (۱) - امراض -
 مرض کھڑا ہونا - (ت - ۱ - محاورہ) بیماری پیدا ہونا -
 مرض اصلی - (ت - ۱ - مذ) وہ مرض جو خود پیدا ہو - اور کسی دوسرے مرض
 کا تابع نہ ہو -
 مرض الموت - (ت - ۱ - مذ) وہ مرض جس میں مبتلا ہو کر آدمی مر جائے -
 مرض بیکر ہونا - (ت - ۱ - محاورہ) بیماری کا خراب صورت اختیار کر لینا - مرض کا
 خطر ناک حالت میں داخل ہونا - بیماری بڑھ جانا -
 مرض حاد - (ت - ۱ - مذ) شدید بیماری -
 مرض خانہ - (ت - ۱ - مذ) (۱) بیماری کا گھر (۲) بیماروں کے
 رہنے کا مکان -
 مرض عارض ہونا - (ت - ۱ - محاورہ) بیماری پیچھے لگ جانا - مرض
 لاحق ہونا -
 مرض کا طوطا ہونا - (ت - ۱ - محاورہ) کھیٹے میں چلنا -
 مرض کی دوا ہونا - (ت - ۱ - محاورہ) کسی مرض کا ہونا - کسی کام کا ہونا -
 مرض لاحق ہونا - (ت - ۱ - محاورہ) بیماری ہونا
 مرض لاحقہ - (ت - ۱ - مذ) موجودہ بیماری -
 مرض لا دوا - (ت - ۱ - مذ) وہ بیماری جس کا علاج نہ ہو - مجازاً، عشق
 کو بھی کہتے ہیں -
 مرض متعبدی - (ت - ۱ - مذ) وہ بیماری جو ایک سے دوسرے کو لگے -
 مرض مترقی - (ت - ۱ - مذ) پڑتی بیماری -
 مرض مقامی - (ت - ۱ - مذ) وہ بیماری جو کسی خاص مقام سے تعلق ہو -

مرض ہلک ۶۷-۱۷۸ مذمہ ہلک کرنے والا مرض۔ وہ بیماری جس میں جان کا اندیشہ ہو۔
 مرضضا۔ مرضضی (مرضضا، ۷۱-۱۷۸ مذمہ مرضضی کی جمع بہت سے بیمار۔
 مرضضہ۔ (مرضضی، ۷۱-۷۲) صفت) بچے کو دودھ پلانے والی عورت والی۔ انا۔
 مرضضی۔ (مرضضی، ۷۱-۷۲) ممت (پسندیدگی پسند رہنا۔ خوشنودی۔ اقرار منطوقی۔ ۲۱، اجازت، ۳۲، خواہش۔
 مرضی پینا (رطبتا)۔ ۱۶-۱۷ محاورہ) اتفاق رائے ہونا۔ دل ملنا۔ باہم رضامند ہونا۔
 مرضی ملے کا سودا ہے۔ رضامندی کا معاملہ ہے۔ رضامندی پر موقوف ہے۔
 مرضی ملے کا سودا ہے۔ ۱۷-۱۸ مذمہ رضامندی کا معاملہ ہے۔ رضامندی پر موقوف ہے۔
 مرضی مولیٰ (راحمہ اولیٰ)۔ ۱۷-۱۸ مقررہ مالک کی رضاسب سے بہتر ہے۔ ہر امر میں خدا کی رضا پر راضی رہنا چاہیے۔ کناہ سے انسان کی لیے بس ہے۔
 مرضی میں انا۔ ۱۶-۱۷ محاورہ) پسند ہونا۔ رائے میں انا۔ رائے کے موافق ہونا۔
 مرضضیات۔ (مرضضی، ۱۷-۱۸) ممت (مرضی کی جمع) پسندیدہ چیزیں۔
 مرضطوت۔ (مرضضی، ۱۷-۱۸) صفت) گرمی کا ہونا۔
 مرضطوبت۔ (مرضطوبت، ۱۷-۱۸) صفت) ممت (مرضضی) (Humidity) مرضطوبت۔ (مرضضی، ۱۷-۱۸) صفت) ممت (مرضضی) میں آیا ہوا۔ ڈرا ہوا ڈرنے والا
 مرضضی۔ (مرضضی، ۱۷-۱۸) صفت) رعایت کیا گیا۔ لحاظ کیا گیا، عام کیا گیا حکومت کیا گیا۔
 مرضضی۔ ۱۷-۱۸ مذمہ ہری گھاس۔ سبزہ۔
 مرضضی زار۔ ۱۷-۱۸ مذمہ سبزہ زار۔ گیاہستان۔
 مرضضی۔ ۱۷-۱۸ مذمہ پرندہ۔ اڑنے والا جانور۔ مرغا۔ خودس۔ جمع مرنواں
 مرضضی آتش بازی (مرضضی، ۱۷-۱۸) مذمہ ایک قسم کی آتش بازی۔
 مرضضی آتش خوار۔ ۱۷-۱۸ مذمہ صفت) چکوری ٹھیک۔
 مرضضی اودھا۔ ۱۷-۱۸ مذمہ لمبے کا بنا ہوا وہ مرض جو ہو اکاٹھ بتاتا ہے۔
 مرضضی بازی۔ (مرضضی، ۱۷-۱۸) صفت) مرضضی پالنے اور لڑانے والا۔
 مرضضی بازی۔ ۱۷-۱۸ مذمہ مرضضی لڑانا۔
 مرضضی ہام۔ ۱۷-۱۸ مذمہ بیل (مرضضی، ۱۷-۱۸) قاضی قری۔
 مرضضی التسم اللہ۔ ۱۷-۱۸ مذمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جسے مرضضی کی صورت میں لکھا جاتے۔
 مرضضی چمن (مرضضی، ۱۷-۱۸) مذمہ بیل۔ عندلیب۔ وہ پرندہ جس کی آواز صولتی ہو۔
 مرضضی چمن زاہد۔ ۱۷-۱۸ مذمہ پرندہ جو باغ میں پیدا ہو۔
 مرضضی حق کو زبرد۔ ۱۷-۱۸ مذمہ ایک پرندہ جو رات کو اکتانک کر حق کی آواز نکالتا رہتا ہے۔

مرضضی خانگی۔ ۱۷-۱۸ مذمہ گھر کا بلا ہوا مرض۔ پالتو مرغ۔
 مرضضی خیال۔ ۱۷-۱۸ صفت) خیال کا مرغ۔ خیال کو پر دانے کا باعث مرغ سے تشبیہ دیتے ہیں۔
 مرضضی دست آموز۔ ۱۷-۱۸ مذمہ ہاتھ پر بلایا ہوا پرندہ وہ سدھایا یا پرندہ جو چوڑھنے کے بعد پھر ہاتھ پر آئے۔
 مرضضی ذل۔ ۱۷-۱۸ مذمہ حرکت کرنے کی وجہ سے دل کا مرغ سے استعارہ کرتے ہیں۔
 مرضضی دیبا۔ ۱۷-۱۸ مذمہ ریشم کے دھاگے سے کپڑے پر مرغ کی بنی ہوئی تصویر۔
 مرضضی زینین (زینین) تاج۔ ۱۷-۱۸ مذمہ تیسرے اور چوتھے ملتا ہوا مرغی کے برابر بزرگ کا ایک پرندہ جس کے چکر دار پر اور سر پر کلمتی ہوتی ہے۔ ایک قسم کا جنگلی مرغ۔
 مرضضی سحر (سحر)۔ ۱۷-۱۸ مذمہ مرغ جو سحر کے وقت اذان دیتا ہے (۱۲) صبح کی چھپانے والے پرندے۔
 مرضضی سدرہ۔ ۱۷-۱۸ مذمہ (بیری پر رہنے والا پرندہ۔ مراد حضرت جبرئیل۔ مسلمانوں کے عقیدے میں آسمان پر ایک بیری کا درخت ہے جو کہ حضرت جبرئیل کا مقام ہے۔ اس کے آگے کسی کی رسائی ممکن نہیں۔
 مرضضی سلیمان۔ ۱۷-۱۸ مذمہ حضرت سلیمان کا پرندہ ہر جگہ حضرت سلیمان کا خط لے کر بقیوں کے پاس گیا تھا۔
 مرضضی شادشاہانہ۔ ۱۷-۱۸ مذمہ پرندہ۔ اس کی کلمتی کے دندانے کلمتی کی طرح ہوتے ہیں۔
 مرضضی شیبہ (شیبہ)۔ ۱۷-۱۸ مذمہ رات کا گاتے والا پرندہ بیل مرغ۔
 مرضضی عیسیٰ (عیسیٰ)۔ ۱۷-۱۸ مذمہ وہ پرندہ جسے حضرت عیسیٰ نے منجا کا ہار دم بھرنے کا تھا۔
 مرضضی قبلہ نما۔ ۱۷-۱۸ مذمہ آواز قبل نما کے اندر وہ پرندہ جو سمت قبلہ بتاتا ہے۔ قبل نما کی سوتی۔
 مرضضی کی ایک ہی ٹانگ۔ ۱۷-۱۸ مذمہ ایک ہی ٹانگ کی بات کی رٹ۔ اپنے جھڑے قول کی کج۔ بے جا بات کی آڑ۔
 مرضضی جمنوں۔ ۱۷-۱۸ مذمہ وہ پرندہ جس نے جمنوں کے سر پر گھونسا بنا ہوا تھا۔
 مرضضی مصطلی۔ ۱۷-۱۸ مذمہ جو شخص ظاہر میں نمازی اور باطن میں مکار ہو۔
 مرضضی نامہ آور۔ ۱۷-۱۸ مذمہ پرندہ (۱۷) خط لانے والا کبوتر (۳۱) قاصد۔ پیک۔
 مرضضی نامہ بر۔ ۱۷-۱۸ مذمہ وہ کبوتر جس کے گلے میں چٹھی باندھ کر بھیجی جاتی۔
 مرضضی لوگوں کو فتنار۔ ۱۷-۱۸ مذمہ وہ پرندہ جو ناپا پکڑا گیا ہو۔
 مرضضی ہمالیوں خال۔ ۱۷-۱۸ مذمہ مبارک شگون والا طاقتور پرندہ۔

مُرکب کرنا - ۱۶۔ مص مرکب کسی چیزوں کو ملانا۔
مُرکبات - رُم رکن - گ - ہات (۱۷۔ ف - ۱۰۔ مذم) مرکب کی جمع۔
مُرکبات ناقصہ - (۱۶۔ مذم) وہ مرکب کام جس سے سننے والے کو پورا فائدہ نہ ہو وہ ہمیشہ جمع کا جَوڑ ہوتا ہے۔ گراخر میں اس کی تقریباً تیرہ قسمیں ہیں۔
مُرکب (رکے) - (۱۶۔ تابع فعل) یہ مشکل تمام - نہایت دشواری سے (۲) مرنے کے قریب پہنچ کر۔
مُرکب پینا - مر کے پینا (۱۶۔ محاورہ) مرتے مرتے پینا - ہلاکت کے قریب پہنچ کر نجات جانا۔ دوبارہ زندگی پانا۔
مُرکب چھوٹا - (۱۶۔ محاورہ) جان دے کر خلاصی پانا۔ موت کے لوجھ لاپاٹا۔
مُرکب (مُرکب) - (۱۶۔ مذم) کسی چیز کے کھڑے کرنے کی جگہ - لوگ دار چیز (۲) کسی چیز کا درمیانی حصہ۔ عین وسط - درمیان - قلب (۳) دار سے کے پنج کا وہ نقطہ جس سے اس کے محیط تک جتنے خط کیے جائیں سب آپس میں برابر ہوں (۶) وہ آڑی لکیر جو کاف یا گاف پر کھینچی جاتی ہے (۵) دُورہ کرنے کی جگہ - مدار دھری - کبھی - وہ نئے جس کے گرد کئی چیز گھومے جمع - مرکز۔
مُرکز نقل - (۱۶۔ ف - ۱۰۔ مذم) کسی جسم کا وہ نقطہ کہ جب اس جسم کو کسی لوگ دار چیز پر ٹھہرایا جائے تو اس کے سارے اجزائے رہیں اور جسم گئے نہیں۔
مُرکز صریح - (۱۶۔ ف - ۱۰۔ مذم) آسمان کا مرکز - زمین - قدم لوگوں کا خیال تھا کہ تمام عالم کا مرکز زمین ہے اور آسمان زمین کے گرد گردش کرتا ہے۔
مُرکز خاک - (۱۶۔ ف - ۱۰۔ مذم) کرہ ارض کا مرکز - زمین کے پچھلے بیج۔
مُرکز غور شید - (۱۶۔ مذم) سورج کا مرکز جو تھا آسمان (۲) دنیا - قدم لوگوں کا خیال تھا کہ سورج زمین کے گرد چکر لگاتا ہے۔
مُرکز دولت - (۱۶۔ ف - ۱۰۔ مذم) دار السلطنت - پایہ تخت - راجہ عالی۔
مُرکز زمین - (۱۶۔ ف - ۱۰۔ مذم) زمین کا وسطی نقطہ - مدار ارضی - دنیا کی کبلی دنیا کی دھری۔
مُرکزہ (Nucleus) - مرکز - کرہ (۱۶۔ مذم) مرکزی شمعہ جس کے گرد اور چیزیں جمع ہوتی ہیں۔
مُرکنا - رُم رکن - نا - ۱۶۔ مص ۱۶۔ مل کھانا - مِرکنا - مِرکنا - مِرکنا۔
مُرکنتا نکل - (Mercantile) (مُرکنتا نکل) (۱۶۔ نکل) صفت (۱) تجارتی تا جواز کاروبار کے متعلق۔
مُرکوز - (مُرکوز) (۱۶۔ صفت) گرا کر ہوا - حکم کیا ہوا (۲) جواز منظور کیا گیا۔ پسند کیا گیا۔ دل نشین (۳) ایک نقطہ پر جمع کیا گیا۔
مُرکوز خاطر - (۱۶۔ ف - ۱۰۔ مذم) دل میں بیٹھا ہوا - دل نشین - دل میں جما ہوا۔
مُرکوز کرنا - ۱۶۔ مص مرکب ایک نقطہ پر جمع کرنا۔
مُرکب پینا - (۱۶۔ مص) مرکز خاک میں مل جانا - مرکز تمام ہو جانا بہت زیادہ کوشش کرنا۔

مُرکنا - (مُرکنا) - نا - ۱۶۔ صفت وہ جازرے سینک مارنے کی عادت ہو۔
مُرکی - (مُرکی) - (۱۰۔ مذم) کان کا ایک زلزلہ جھوٹی سی بانی۔
مُرکے - (۱۶۔ تابع فعل) فوت ہو کر - دنیا سے گزر کر۔
مُرک - (۱۶۔ مذم) موت - اجل۔
مُرک آسان - (۱۶۔ مذم) وہ موت جو آسانی سے آجاتے - جلدی سے دیم نکل جائے۔
مُرک اتفاقی - (۱۶۔ مذم) وہ موت جو اچانک آجائے ناگہانی موت۔
مُرک ابوہ جتنے دارو - (۱۶۔ ف - ۱۰۔ مذم) عام مصیبت ایک قسم کا جلدی جتن بن جاتی ہے۔ عام مصیبت کا رنج نہیں ہوتا۔ دوسروں کی مصیبت دیکھ کر اپنا رنج کم ہو جاتا ہے۔
مُرک پنج - (۱۶۔ مذم) گڑھی کا ایک خاص قسم کا بیج جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس بیج کا پانڈھنے والا مرنے پر تیار ہے۔
مُرک تازہ - (۱۶۔ مذم) تمام مادہ درمیان (۱) نہا عشق۔
مُرک جوانانہ - (۱۶۔ مذم) جوانی کی موت۔
مُرک طبعی - (۱۶۔ مذم) قدرتی موت - اپنی موت - وہ موت جو پوری عمر پہنچ کر آسکتی۔
مُرک مینافعات - (۱۶۔ مذم) اتفاقی موت۔
مُرک لو - (۱۶۔ مذم) تازہ موت (۱۲) عشق۔
مُرک نومبارک باد - (۱۶۔ مذم) اس وقت بولتے جب کوئی تازہ مادہ پختی آجائے۔
مُرگ - (۱۶۔ مذم) ہرن - (۱۰۔ مذم) ہرن - (۱۰۔ مذم) چکارا (۱۲) چوپایہ - حیوان (۳) پانچواں بچتر۔
مُرگ جھالہ - (۱۶۔ مذم) ہرن کی بالوں سمیت کھال جس پر بیٹھ کر درویش لوگ عبادت کرتے ہیں۔
مُرگ ساللا - (۱۶۔ مذم) ہرن کے رہنے کی جگہ۔
مُرگ کھی آشکھ - (۱۶۔ مذم) ہرن کی طرح بڑی بڑی اور خوبصورت آنکھوں والی۔
مُرگ کی کسی آنکھیں چھینکی سی کر - (۱۶۔ مذم) خوب صورت عورت کی تعریف میں کہتے ہیں۔
مُرگ مارنا - (۱۶۔ محاورہ) ہرن کا شکار کھیلنا (۲) ایک رسم جس میں لڑکا پیدا ہوتے پر باپ زچہ کی چار پائی پر کھڑے ہو کر صحت میں حیر مارتا ہے۔
مُرگ مادھ - (۱۶۔ مذم) کستوری - مشک - ناؤ۔
مُرگ نین - (۱۶۔ صفت) ہرن کی آنکھ (۲) ہرن جیسی آنکھ والی۔
مُرگان - (۱۶۔ مذم) مرگ جھالا۔
مُرگانک - (مُرگانک) (۱۶۔ مذم) دھات وغیرہ کا کٹتے۔
مُرگ گل - (مُرگ گل) (۱۶۔ مذم) تلی ہوئی پھلی (۲) تلی ہوئی پھلی کے ٹکڑے۔
مُرگ کھٹ - (مُرگ کھٹ) (۱۶۔ مذم) مسان - شمشان - ہندوؤں کے

مرہ سے جلانے کی جگہ۔
 مرگھٹ کا بھگتنا۔ ۱-۵۶۔ اندم مسان کا آسیب۔ پریت۔ ساہ۔
 ہم نداد۔
 مرگی۔ (مرگی ۱-۵۶)۔ مدت ۱ ایک مرض جس میں آدمی اچانک زمین پر گر کر
 بے ہوش ہو جاتا ہے۔ ہاتھ پیر پٹھے ہو جاتے ہیں۔ اور منہ سے
 جھگ نکلتا ہے۔ مخرج۔
 مرگی آنا۔ ۱۶۔ محاورہ ۱ مرگی کا دورہ پڑنا۔ مرگی کا مرض ہونا۔
 مرگی کا۔ ۱۶۔ مرگی کا۔ ۱۶۔ صفت ۱ وہ آدمی جس کو مرگی کا مرض ہو۔
 مرگی کا مرد و جس کا فاسخ نہ درورد۔ ۱۶۔ مثل ۱ نیکے آدمی کی بات
 پر بولتے ہیں۔
 مرگی لاڈلہ (مرگی ۱-۵۶)۔ صفت ۱ بانسری سنے۔ الغورہ۔
 مرگی دھو۔ ۱-۵۶۔ اندم ۱ کرشن جی کا لقب۔ اکثر ہندوؤں کا نام
 ہوتا ہے۔
 مرگی دھن۔ ۱-۵۶۔ صفت ۱ بانسری کی سرخی اور دلکش آواز۔
 مرگی۔ دم۔ زل۔ ۱-۵۶۔ صفت ۱ چھوٹی مرگی۔ چھوٹی بانسری۔
 مرگی یا جینا۔ ۱۶۔ محاورہ ۱ چھوٹی مرگی کا بھگتنا۔ دست آنا۔
 مرگم۔ دم۔ زوم۔ ۱-۵۶۔ اندم ۱ بدن کا کوئی نازک مقام۔ نازک عضو ۲،
 کسی چیز کا اندرونی حصہ۔ دل۔ اندر۔ باطن ۳، جوڑم، کوئی
 چیز جو تھیرے کی جاتے۔ ساز۔ سمیڈ ۵، عالم۔ دانش۔ گیان ۷، مطلب
 مقصد۔ مخرج۔
 مرگم۔ دم۔ زوم۔ ۱-۵۶۔ صفت ۱ کنگولی مٹی ۲، پتھر جو بڑی چٹان ۳، ٹسے ٹسے
 ریزہ ریزہ پتھر۔ روٹی۔
 مرگمت۔ دم۔ زوم۔ صفت ۱ ۱-۵۶۔ صفت ۱ اصلاح۔ ٹوٹی ہوئی چیز
 کو ٹھیک کرنا۔ ترمیم۔ پچھتے پچھتے کی درستگی۔ ۲، سزا۔ گولہائی
 ماہریت۔
 مرگمت طلب۔ ۱-۵۶۔ صفت ۱ درستگی کے قابل۔ ٹھیک ہو سیکے لائق۔
 مرگمت گھرانہ۔ ۱۶۔ صفت ۱ درست کرنا۔
 مرگمت کرنا۔ ۱۶۔ محاورہ ۱ ٹھیک کرنا۔ درست کرنا ۲، مارنا پٹنا۔ گوش
 مالی کرنا۔ گت بنانا۔
 مرگشا۔ ۵۶۔ صفت ۱ جو فنا اور بے نشان ہو گیا ۲، عاشق۔
 مرگشا۔ (مرگشا۔ ۱۶)۔ صفت ۱ قتل، ہونا ۲، کمال مشقت برداشت
 کرنا ۳، فنا ہو جانا۔ تباہ و برباد ہو جانا ۴، عاشق ہو جانا۔
 مرگشہ۔ ۱-۵۶۔ اندم ۱ ایک سفید یا نیل گول چمکدار پتھر۔
 مرگشہ۔ دم۔ زوم۔ ۱-۵۶۔ صفت ۱ مرگی کا نام۔
 مرگشہ۔ دم۔ زوم۔ ۱-۵۶۔ اندم ۱ بھگتے ہوئے جا دل نہیں چباتے وقت
 مرگی کی آواز نکلتی ہے۔
 مرگشہ۔ صفت ۱ ۱-۵۶۔ صفت ۱ مرگی کی بوری ۲، موٹا زہر آدمی۔
 مرگشہ۔ صفت ۱ ۱-۵۶۔ اندم ۱ ایک قسم کا پتلا اور مٹا ہوا گولٹا۔
 مرگشہ۔ ۱۶۔ صفت ۱ مرگشہ کی تاکید ہے، بہت مشقت آٹھانا۔

مرگمر کر۔ مرگمر کرے۔ ۱-۵۶۔ تامل فعل ۱ بڑی مشکل سے بہت محنت
 برداشت کر کے۔
 مرگمر کے بچنا۔ ۱۶۔ محاورہ ۱ مرنے کے قریب پہنچ کر جان بیچ جانا۔ مرض
 فہمک سے صحت پانا۔
 مرگمر کے چھینا۔ ۱۶۔ محاورہ ۱ مرنے سے پیدا ہونا۔ خطرناک بیماری
 سے نجات پانا۔
 مرگمر کے دن گزارنا۔ ۱۶۔ محاورہ ۱ بڑی مشکل سے زندگی کاٹنا۔
 مرگمر۔ دم۔ زوم۔ صفت ۱ ۱-۵۶۔ اندم ۱ ترمیم کیا ہوا۔ ۱ اصلاح شدہ۔ ٹھیک
 کیا ہوا۔ درست کیا ہوا۔
 مرگمر۔ دم۔ زوم۔ صفت ۱ ۱-۵۶۔ صفت ۱ اصلاح کی ہوئی۔ ٹھیک کی ہوئی
 (ترمیم کی تائید)۔
 مرگموز۔ ۱۶۔ صفت ۱ رزم۔
 مرگن۔ دم۔ زون۔ ۱-۵۶۔ اندم ۱ تھا۔ موت۔ مرگ۔ نا اہل ۲، مرنے کا وقت
 وقت مرگ ۳، جان دینا۔ مرجانا۔
 مرگن برت۔ ۱-۵۶۔ اندم ۱ وہ فاتحہ جسے کرتے کرتے انسان مرجائے۔
 مرگنا۔ مرگنا۔ ۱۶۔ صفت ۱ فوت ہونا۔ انتقال کرنا۔ وفات پانا۔ دم نکلتا
 دنیا سے گزرتا۔ جیل بسنا ۲، جان جو کسوں میں ڈالنا۔ ہلاک ہونا۔
 جان دینا۔ جان سے گزرتا ۳، عاشق ہونا۔ فریفتہ ہونا۔ ٹوٹنا۔
 دم، کمال محنت کرنا۔ از حد مشقت کرنا۔ لہو پانی ایک کرنا۔ کشٹ
 کرنا ۵، پسند ہونا۔ مرغوب ہونا۔ بھانا ۶، کوشش کرنا۔ سعی
 کرنا۔ ہاتھ پاؤں مارنا ۷، مڑھانا۔ مکھانا۔ پشمرہ ہونا۔ سوکھ
 جانا ۸، طاقت نہ رہنا۔ سکت نہ رہنا۔ سوکھ کر خراب ہو جانا۔
 جیسے چونا مرنا ۹، ڈوبنا۔ وصول نہ ہونا۔ ٹسے ٹسے میں لکھا جانا
 مثلاً ۱۱، ساری مرنا ۱۲، ٹوٹنا۔ خسارہ پیشا۔ نقصان ہونا ۱۳، غار بازوں
 کی اصلاح میں ہارنا۔ جیسے بازی مرنا ۱۴، دھات وغیرہ کا کٹنا ہونا۔
 جیسے پارہ مرنا ۱۵، تباہ ہونا۔ برباد ہونا ۱۶، سونا۔ نندہ لینا۔ آنکھ
 جھپکنا ۱۷، نہایت شرمندہ ہونا ۱۸، نہایت بیزاری اور نکلنا ظاہر
 کرنے کیلئے بھی آتا ہے جیسے جاڈمرو۔
 مرنا بھرتا۔ ۱۶۔ محاورہ ۱ مصیبت جھیلنا۔ تکلیف اٹھانا۔
 مرنا چھینا۔ ۱۶۔ اندم ۱ موت زندگی۔ شادی غمی۔
 مرنا جینا لگ رہا ہے۔ ۱۶۔ مثل ۱ زندگی اور موت کا سلسلہ
 جاری ہے۔
 مرنجال مریج۔ دم۔ زون۔ صفت ۱ ۱-۵۶۔ صفت ۱ کسی کو زخمیدہ
 کر دینا۔ زخمیدہ ہونا ۲، وہ شخص جس سے کسی کو زخم پہنچے۔ سب سے
 ہنس بول کر بھنے والا۔
 مرنگڑ۔ دم۔ زون۔ ۱-۵۶۔ اندم ۱ بھگتے ہوئے گہول وغیرہ جن میں گولٹا
 کسی لاکڑی کو ڈالتے ہیں ۲، چمڑ۔ سوکھا ہوا۔
 مرنگڑ (بنا دینا) کرنا۔ ۱۶۔ محاورہ ۱ ٹھٹھی بنانا۔ توڑنا۔ مروڑنا۔
 ۱۲۔ پھونٹنا ۱۳، شیدا بنانا۔
 مرنگڑ سے فی رگم۔ ۱۶۔ صفت ۱ جب بچ پانچ مہینے کا ہو کر مٹھیاں بند

مروڑھی لگانا - ۱۶- محاورہ) بیل لگانا - ایشٹھلا - ایلانا -

مَرُوڑَق - دم - رُو - رُو ق - ۱۷- صفت) صاف کیا ہوا - مصفا - مقطر - خالص -

مَرُوڑَنَا - ۱۶- مصغرت گشت کرنا - آوارہ بھجنا -

مَرُوڑَنہ - ۱۷- اندامکہ مغز میں ایک پہاڑی -

مَرُوڑَوی - ۱۷- صفت) روایت کیا گیا، بیان کیا گیا -

مَرُوڑَہ - ۱۷- مرزہ ۱۷- صفت) ایک بار - ایک دفعہ -

مَرُوڑَہ - ۱۷- مرزہ - ۱۷- صفت) ایک قوم جو ہمارا شطر ہندوستان کی رہنے والی ہے -

مَرُوڑَہی - ۱۷- مرزہ - ۱۷- صفت) مرہٹہ سے منسوب (۲) مرہٹھی زبان (۳) ایک قسم کے گیت (۴) بد عملی - اہتری - بد نظمی -

مَرُوڑَہی ساروہی - ۱۷- صفت) ایک قسم کی ساڑھی جس میں پینڈیاں کھلی ہوتی رہیں - مرہٹہ عورتوں کی وضع کی ساڑھی -

مَرُوڑَہی گھس گھس - ۱۷- صفت) مرہٹوں کے راج کی بدانتظامی اور اہتری مشہور ہے، نہایت بد نظمی - کمال اہتری -

مَرُوڑَہم - ۱۷- مرزہ - ۱۷- صفت) وہ کاٹھی، نرم اور چکنی دوا جو زخم پر لگائی جاتی ہے (مجازاً) کسی قسم کے زخم کا علاج - وہ چیز جو تشکیلی

مَرُوڑَہم پی کرنا - ۱۷- محاورہ) زخم کا علاج کرنا - زخمی کا علاج

مَرُوڑَہم دان - ۱۷- صفت) مرہٹہ رکھنے کا ڈبہ -

مَرُوڑَہم لکھنا - ۱۷- محاورہ) زخم پر مرہٹہ لگانا -

مَرُوڑَہم لنگا - ۱۷- صفت) ایک خاص قسم کا مرہٹہ جو سبز رنگ کا ہوتا ہے -

مَرُوڑَہم کی جٹی - ۱۷- صفت) وہ جی جو مرہٹہ میں لٹ کر کے زخم بھرنے کے لیے رکھی جاتی ہے -

مَرُوڑَہم لگانا - ۱۷- محاورہ) زخم پر مرہٹہ چرانا - مرہٹہ کا لپک کرنا -

مَرُوڑَہن - ۱۷- مرہٹہ - ۱۷- صفت) تمباکو کا چورا - سوکھا اور گشت ہوا

مَرُوڑَہون - ۱۷- مرزہ - ۱۷- صفت) مرہٹہ کی لگا - گود رکھا گیا -

مَرُوڑَہون منڈت - ۱۷- صفت) اسیان منڈ - ممنون - شکر گزار -

مَرُوڑَہونہ - ۱۷- مرزہ - ۱۷- صفت) مرہٹہ کی ہوتی چیز -

مَرُوڑَہی - ۱۷- مرزہ - ۱۷- صفت) دیکھی گئی - جو چیز دیکھنے میں آئے - جس کو دیکھ سکیں -

مَرُوڑَہیات - ۱۷- مرزہ - ۱۷- صفت) مرہٹہ کی جمع - وہ چیزیں جو دیکھی جا سکیں -

مَرُوڑَہی - ۱۷- مرزہ - ۱۷- صفت) مرہٹہ سے پیدا ہونے والا -

مَرُوڑَہی - ۱۷- مرزہ - ۱۷- صفت) مرہٹہ سے پیدا ہونے والا -

مَرُوڑَہی - ۱۷- مرزہ - ۱۷- صفت) مرہٹہ سے پیدا ہونے والا -

مَرُوڑَہی - ۱۷- مرزہ - ۱۷- صفت) مرہٹہ سے پیدا ہونے والا -

مَرُوڑَہی - ۱۷- مرزہ - ۱۷- صفت) مرہٹہ سے پیدا ہونے والا -

مَرُوڑَہی - ۱۷- مرزہ - ۱۷- صفت) مرہٹہ سے پیدا ہونے والا -

مَرُوڑَہی - ۱۷- مرزہ - ۱۷- صفت) مرہٹہ سے پیدا ہونے والا -

مَرُوڑَہی - ۱۷- مرزہ - ۱۷- صفت) مرہٹہ سے پیدا ہونے والا -

مَرُوڑَہی - ۱۷- مرزہ - ۱۷- صفت) مرہٹہ سے پیدا ہونے والا -

مَرُوڑَہی - ۱۷- مرزہ - ۱۷- صفت) مرہٹہ سے پیدا ہونے والا -

مَرُوڑَہی - ۱۷- مرزہ - ۱۷- صفت) مرہٹہ سے پیدا ہونے والا -

مفت ثواب کمانا چاہیے -

مَرُوڑَہی - ۱۷- محاورہ) ذہا چھیننا - کسی عام مرض کا پھوٹ پڑنا -

مَرُوڑَہی - ۱۷- صفت) کناہیت، بہت کناہی اور حسرت آدمی (۲) کنبوس -

مَرُوڑَہی کیوں سانس نہ آیا - ۱۷- مثل) اظہار مصیبت کے وقت بولتے ہیں -

مَرُوڑَہی کی نشانی - ۱۷- صفت) مرہٹہ کی یادگار - اولاد -

مَرُوڑَہی - ۱۷- صفت) مرہٹہ کی یادگار - اولاد -

مَرُوڑَہی - ۱۷- صفت) مرہٹہ کی یادگار - اولاد -

مَرُوڑَہی جان - ۱۷- صفت) میری جان - جان من عزیز من - عشق کویا

مَرُوڑَہی کی جو بہت عزیز ہو اس لفظ سے خطاب کرتے ہیں -

مَرُوڑَہی - ۱۷- صفت) مرہٹہ کی یادگار - اولاد -

مَرُوڑَہی کی نئی -

مَرُوڑَہی - ۱۷- صفت) مرہٹہ کی یادگار - اولاد -

مَرُوڑَہی - ۱۷- صفت) مرہٹہ کی یادگار - اولاد -

مَرُوڑَہی - ۱۷- صفت) مرہٹہ کی یادگار - اولاد -

مَرُوڑَہی - ۱۷- صفت) مرہٹہ کی یادگار - اولاد -

مَرُوڑَہی - ۱۷- صفت) مرہٹہ کی یادگار - اولاد -

مَرُوڑَہی - ۱۷- صفت) مرہٹہ کی یادگار - اولاد -

مَرُوڑَہی - ۱۷- صفت) مرہٹہ کی یادگار - اولاد -

مَرُوڑَہی - ۱۷- صفت) مرہٹہ کی یادگار - اولاد -

مَرُوڑَہی - ۱۷- صفت) مرہٹہ کی یادگار - اولاد -

مَرُوڑَہی - ۱۷- صفت) مرہٹہ کی یادگار - اولاد -

مَرُوڑَہی - ۱۷- صفت) مرہٹہ کی یادگار - اولاد -

مَرُوڑَہی - ۱۷- صفت) مرہٹہ کی یادگار - اولاد -

مَرُوڑَہی - ۱۷- صفت) مرہٹہ کی یادگار - اولاد -

مَرُوڑَہی - ۱۷- صفت) مرہٹہ کی یادگار - اولاد -

مَرُوڑَہی - ۱۷- صفت) مرہٹہ کی یادگار - اولاد -

مَرُوڑَہی - ۱۷- صفت) مرہٹہ کی یادگار - اولاد -

مَرُوڑَہی - ۱۷- صفت) مرہٹہ کی یادگار - اولاد -

مَرُوڑَہی - ۱۷- صفت) مرہٹہ کی یادگار - اولاد -

مَرُوڑَہی - ۱۷- صفت) مرہٹہ کی یادگار - اولاد -

مَرُوڑَہی - ۱۷- صفت) مرہٹہ کی یادگار - اولاد -

مَرُوڑَہی - ۱۷- صفت) مرہٹہ کی یادگار - اولاد -

مَرُوڑَہی - ۱۷- صفت) مرہٹہ کی یادگار - اولاد -

مَرُوڑَہی - ۱۷- صفت) مرہٹہ کی یادگار - اولاد -

مَرُوڑَہی - ۱۷- صفت) مرہٹہ کی یادگار - اولاد -

میرٹھ - دم - ری - تہ - (۱-۱-۱) مذ (اصل میں مرینو تھا - (Merino) ایک قسم کا لائی کپڑا جو مرینو بھیر کے اون سے بنایا جاتا ہے۔

م۔ م۔

مٹر آنا - مٹر آنا، (۱۱) مص (ٹوٹ آنا - واپس آنا - پلٹ آنا -
 مٹر آسا - دم - ٹا - سا، (۵) - مٹ (دیکھیے منڈا سا - پگڑی - دستار -
 مٹرب - (۱۱) - مذ (سرماہ -
 مٹر جانا - (۱۱) - مص (واپس ہوجانا - بھرنانا، (۲) - جھکنا -
 مٹرک - دم - ٹرک، (۵) - مٹ (آٹھ - ٹیٹھ - بل - کچی - مردوڑ، (۲) - گڑ - قاعدہ
 ٹکوتہ، (۳) - ساز باز - داؤں لگات - ٹوڑ جوڑ -
 مٹر کر نہ دیکھنا - (۱۱) - محاورہ (مٹہ مٹر کر نہ دیکھنا - دوبارہ نہ دیکھنا - رُخ نہ
 کرنا - بات نہ بولنا -
 مٹر کنا - دم - ٹرک - نا، (۵) - مص (ٹوٹنا - چلنا - چٹ چٹ ٹوٹنا - جیسے
 چوڑیاں ٹوٹنا -
 مٹر کے ٹھوٹ نہ لینا - (۱۱) - محاورہ (توجہ نہ کرنا - خیر نہ لینا -
 مٹر ٹل جانا -
 مٹر مٹر کر دیکھنا - (۱۱) - محاورہ (پھر پھر کر دیکھنا - کسی عزیز کو بار
 بار پھر کر دیکھنا -
 مٹرنا - (مٹو - نا، (۵) - مص (ٹوٹنا - واپس ہونا - پلٹنا، (۲) - بل کھانا -
 خم کھانا -
 مٹو - (۱۱) - مذ (تالاب -
 مٹو - (مٹو - وا، (۵) - مذ (ایک قسم کا غلہ -
 مٹوڑیاں - (۱۱) - مٹ (پتھرتاب -
 مٹھنا - (مٹھ - نا، (۵) - مص (کھال چڑھانا - منڈھنا - پوشش کرنا -
 مٹھوانا - (مٹھ - وا - نا، (۵) - مص (کھال چڑھوانا - پوشش کرنا -
 مٹھوانا -
 مٹھوی - دم - ٹھی، (۵) - مٹ (جھونپڑی، (۲) - جھوٹا مندر - سادھ -
 مٹھی - (۱۱) - مٹ (باغ کی کیاری - کھیت -

م۔ ز

مڑا - دم - ذ، (۱۱) - مذ (اصل میں یہ لفظ مزہ ہے لیکن تاقیے کے لحاظ سے
 کسی الف کے ساتھ بھی آتا ہے - سواد ذائقہ -
 مڑا کر گرا، ہونا، (۱۱) - محاورہ (بے لطف ہونا - رنگ میں بھنگ پڑنا -
 مڑاچ - دم - ذ - سچ، (۱۱) - مذ (طبیعت - سرشت - خمیر، (۲) - مٹی
 خاصیت - خاصہ - اثر، (۳) - عادت - غصبت - سبھاؤ، دم - مادہ
 جوہر - حقیقت - اصلیت، (۵) - مگر - مزو - دماغ - مگر، (۲) - دل، (۲) -

ناز نخرہ - جمع - امزجہ -

مزاج آشنا - (ع - ف - ص) طبیعت شناس - مزاج پہچانتے والا
 مزاج دان - عادت سے واقف -

مزاج آگ کھرنا - (۱۱) - محاورہ (طبیعت میں زیادہ گرمی پیدا کر دینا - بہت
 مٹزی پیدا کر دینا - غصہ دلانا -

مزاج آگ ہونا - (۱۱) - محاورہ (طبیعت میں بہت زیادہ گرمی پیدا
 ہونا - غصہ میں آنا -

مزاج آگیا - (۱۱) - محاورہ (طبیعت کا مائل ہونا -

مزاج اٹھانا - (۱۱) - محاورہ (بد مزاجی برداشت کرنا - ناز برداری کرنا -

مزاج اٹھنا - (۱۱) - محاورہ (کسی کی ناز برداری کی بڑاشت ہونا - غم سے
 سبے جانا -

مزاج اچھا - (۱۱) - مکر (مزاج پُرسی (طبیعت تو درست ہے -

مزاج اچھا ٹوسے - (۱۱) - روز مزہ (طبیعت تو درست ہے - طنز، (۲) - مٹی

لولا جاتا ہے (۲) - خیریت دریافت کرنے کے لیے کہتے ہیں (۳) - جب

کسی کے چہرے سے بیماری یا اُداسی ظاہر ہو اُس وقت بھی
 کہا جاتا ہے -

مزاج اصلاح پر آنا - (۱۱) - محاورہ (بد مزاجی کم ہونا، (۲) - مرض میں افاقہ ہونا -

اچھا ہونا - تندست ہونا -

مزاج اعتدال پر ہونا - (۱۱) - محاورہ (طبیعت میں زیادہ تیزی یا گرمی کا نہ ہونا

مزاج ٹھیک حالت پر ہونا - مزاج درست ہونا -

مزاج ایک حال پر رہنا - (۱۱) - محاورہ (طبیعت کا ایک حالت
 پر قائم ہونا -

مزاج ایک ہونا - (۱۱) - محاورہ (خاصیت یکساں ہونا - طبیعتوں میں
 کامل موافقت ہونا -

مزاج بحال ہونا - (۱۱) - محاورہ (بیماری کی طبیعت کا اصلی حالت کی طرف آنا

مرض کم ہونا -

مزاج بدلا ہونا - (۱۱) - محاورہ (طبیعت کا رنگ کچھ کچھ ہونا -

مزاج بد ہونا - (۱۱) - مص مرکب (مزاج بُرا ہونا - بد مزاج ہونا -

مزاج بڑھ کر ہونا - (۱۱) - مص مرکب (ناراض کر دینا - غصہ دلانا -

مزاج برنگ ہونا - (۱۱) - مص مرکب (ناراض ہونا - غصہ آنا - بڑھنا

مزاج بگاڑنا - (۱۱) - محاورہ (عادت خراب کرنا - طبیعت میں غصہ اور
 تیزی پیدا کرنا -

مزاج بنا دینا - (۱۱) - محاورہ (طبیعت کی اصلاح کر دینا، (۲) - خاصیت
 پیدا کر دینا -

مزاج بننا - (۱۱) - محاورہ (طبیعت کی اصلاح ہونا -

مزاج بہکنا - (۱۱) - محاورہ (تھل دماغ ہونا - دلوانا ہوجانا -

مزاج بہلنا - (۱۱) - محاورہ (طبیعت بہلنا -

مزاج بے مزہ ہونا - (۱۱) - محاورہ (بیمار ہونا - علیل ہونا -

مزاج پانا - (۱۱) - محاورہ (توجہ پانا - رُخ پانا، (۲) - رنگ طبیعت
 معلوم کرنا -

کچھ تیز لگیا ہو۔

مزارِ احفات - (م - ز - ا - خ - ف - ا - ت) (ع - ص - ف - م - د) وہ بکور جن میں زحان واقع ہوا ہو۔

مزارِ حرم - (م - ز - ا - ح - م) (ع - ا - م - ن - د) مزارِ حرم کرنے والا - روکنے والا - حامل - مانع۔

مزارِ حرم ہونا - (م - ز - ا - ح - م) (ع - م - م - ک - ب) روکنے والا - سبب ہونا - مانع ہونا۔

مزارِ احمدت - (م - ز - ا - ح - م - ت) (ع - ا - م - ن - د) روک - ممانعت - مقرر۔

مزارِ احمدت لیے جا - (ع - م - ت) (ع - ا - م - ن - د) قانون کے خلاف روک ٹوک۔

مزارِ احمدت بالارادہ - (قانون) وہ روک ٹوک جو جان بوجھ کر کی جائے۔

مزار - (م - ز - ا - ر) (ع - ا - م - ن - د) زیارت کرنے کی جگہ - درگاہ - آستانہ - مقبرہ - قبر - تربت - گورج - مزارات۔

مزارِ ارح - (م - ز - ا - ر - ح) (ع - ا - م - ن - د) کھیتی کرنے والا کسان - کاشتکار - رعی - مزارعین۔

مزارِ ارح تابع فرضی مالک - (ع - م - ت) (ع - ا - م - ن - د) وہ کاشتکار جسے زمیندار جب چاہے نکال دے۔

مزارِ ارح چھ بند - (ع - م - ت) (ع - ا - م - ن - د) وہ کاشتکار جس کا حق قدیم سے چلا آتا ہو۔

مزارِ امیر - (م - ز - ا - م - ر) (ع - ا - م - ن - د) مزار کی جمع - بالنسریاں - مسطروں کے ہر قسم ساز (۳) راگ - گیت - راگ میں کی جانے والی دعائیں۔

مزارِ امیر داؤد - (ع - ا - م - ز) (ع - ا - م - ن - د) حضرت داؤد علیہ السلام کی کتاب زبور کی آیتیں لفظ - خوش آوازیوں۔

مزارِ اوجبت - (م - ز - ا - و - ج - ت) (ع - ا - م - ن - د) زوج ہونا۔

مزارِ بہا - شادی۔

مزارِ اولت - (م - ز - ا - و - ل - ت) (ع - ا - م - ن - د) کسی کام کو ہمیشہ کرنا روزمرہ مشق۔

مزارِ ائل - (Missile) (م - ز - ا - ن - ل) (ع - ا - م - ن - د) راکٹ توڑوں کی طاقت سے پرواز کرنے والے خوفناک جنگی ہتھیار جنہیں ہزاروں میل دور مقررہ مقام پر گرایا جا سکتا ہے۔

مزارِ بلکہ - (ع - ا - م - ن - د) وہ مقام جہاں کوڑا کرکٹ اور نجاست ڈالتیں۔

مزارِ بلکہ - (م - ز - ا - و - ل - ت) (ع - ا - م - ن - د) اوپر لکھا ہوا - مذکورہ الصدر - مذکورہ بالا۔

مزارِ جات - (م - ز - ا - ج - ا - ت) (ع - ص - ف - م - د) تھوڑا سا چتر - ادنیٰ۔

مزارِ حروف - (م - ز - ا - ح - ر - و - ف) (ع - ا - م - ن - د) بنادے کی بات - وہ جو بی بات جو بی کی طرح آراستہ کی گئی ہو - بیہودہ بات۔

مزارِ عرفات - (م - ز - ا - ر - ع - ف - ا - ت) (ع - ا - م - ن - د) مزارِ عرفات کی صحیح جھٹی باتیں - بنیادی باتیں - ماہیات باتیں۔

مزد - (م - ز - د) (ع - ا - م - ن - د) مزدوری - اجرت - طلب - تنخواہ - صلہ بدلہ۔

مزد و لفظ - (م - ز - د - ل - ف - ظ) (ع - ا - م - ن - د) منیٰ اور عرفات کے درمیان ایک مقام جہاں حاجی لوگ عرفات سے واپسی پر ۹ اور ۱۰ ذی الحجہ کی رات کو قیام کرتے ہیں۔

مزد و زوری - (م - ز - د - و - ز - ی) (ع - ا - م - ن - د) مزدوری کرنے والا - اجرت پر کام کرنے والا۔

کرنے والا۔ لہذا اچھے والے مانتے والے مانتے والے مانتے والے مانتے والے۔

مزد و زور خوش دل گندہ کار - (م - ز - د - و - ز - ی) (ع - ا - م - ن - د) شہ آجی اجرت پانچوالا مزدور زیادہ کام کرتے ہیں۔

مزد و زوری - (م - ز - د - و - ز - ی) (ع - ا - م - ن - د) اجرت - کام کا معاوضہ - محنت کا صلہ (۳) محنت - مشقت - محنت۔

مزد و زوری پر جانا - (ع - ا - م - ن - د) محنت پر جانا - کام پر جانا۔

مزد و زوری نہ کرنا - (ع - ا - م - ن - د) محنت نہ کرنا - محنت نہ کرنا۔

مزد و زوری لند زوری - (م - ز - د - و - ز - ی) (ع - ا - م - ن - د) مزدوری کو قیام نہیں ہوتا۔ کبھی بلی کبھی نہ ہلی۔

مزارِ ارح - (م - ز - ا - ر - ح) (ع - ا - م - ن - د) مزار (م - ت) کھیتی - کھیت - کشت۔

مزارِ ارح - (م - ز - ا - ر - ح) (ع - ا - م - ن - د) عاقبت کی کھیتی - کھلی - بھلائی۔

مزارِ ارح - (م - ز - ا - ر - ح) (ع - ا - م - ن - د) کھیت میں لپٹی ہوئی چیز۔

مزارِ ارح - (م - ز - ا - ر - ح) (ع - ا - م - ن - د) کاشت کی ہوئی زمین۔

مزارِ ارح - (م - ز - ا - ر - ح) (ع - ا - م - ن - د) زعفران میں رنگے ہوئے پٹیے چاول کا پلاؤ۔

مزارِ ارح - (م - ز - ا - ر - ح) (ع - ا - م - ن - د) عوم - عوم - عوم - عوم - عوم۔

مزارِ ارح - (م - ز - ا - ر - ح) (ع - ا - م - ن - د) کاشت کیا ہوا۔

مزارِ ارح - (م - ز - ا - ر - ح) (ع - ا - م - ن - د) کاشت کیا گیا۔ زکوٰۃ دیا گیا۔

مزارِ ارح - (م - ز - ا - ر - ح) (ع - ا - م - ن - د) زکوٰۃ والا (۲) زکوٰۃ دینے والا۔

مزارِ ارح - (م - ز - ا - ر - ح) (ع - ا - م - ن - د) پھسلنے کی جگہ۔

مزارِ ارح - (م - ز - ا - ر - ح) (ع - ا - م - ن - د) زلف والا۔ معشوق۔

مزارِ ارح - (م - ز - ا - ر - ح) (ع - ا - م - ن - د) زلف والا۔ معشوق۔

مزارِ ارح - (م - ز - ا - ر - ح) (ع - ا - م - ن - د) زلف والا۔ معشوق۔

کی بچاڑی کے ساتھ بندھا ہوتا ہے۔ تاکہ گھوڑا اُگے نہ بڑھ سکے۔
مُزے لینا - (۱۶- محاورہ) خبر لینا۔ تنگ کرنا۔ ٹھیک بنانا۔ آڑے
 ہاتھوں لینا۔

مُزور - رُم - زور، (ع ۱-۶) سدا جھوٹا کیا گیا۔ آمیزش کیا گیا۔
 ملا گیا۔ کھوٹا۔

مُزور - رُم - زور، (ع ۱-۶) سدا جھوٹا۔ درد بخ گودس، بد معاش۔
 بد عین۔ لچا۔ شہداد (۳)، زیارت کرنے والا۔

مُزوری - (ع ۱-۶) مشق مزوری۔ معاوضہ۔ بدلہ۔
مُزہ - رُم - زہ (ع ۱-۶) لذت۔ سواد۔ ذائقہ (۲)، چسکا۔ چاٹ
 (۳)، لطف۔ خطہ۔ زس بہار (م)، خوشی۔ عیش۔ عشرت (۵)، جوین
 شباب (۶)، لذت۔ عادت۔ دُعت (۷)، سیر۔ تماشا (۸) حالت کیفیت
 گت۔ درجہ (۹)، سزا۔ جزا۔ تعزیر۔

مُزہ آنا - **مُزہ آجانا** - (۱۶- محاورہ) لطف آنا۔ لذت حاصل ہونا۔
مُزہ اٹھانا - (۱۶- محاورہ) لطف حاصل کرنا۔ جھٹا اٹھانا (۲)، تکلیف برداشت کرنا
 (۳)، طنز، اُڑے کام کی سزا پانا۔ رنج اٹھانا۔

مُزہ اڑانا - (۱۶- محاورہ) عیش اڑانا۔ لطف حاصل کرنا (۲)، بہار لوٹنا
 جوین لوٹنا۔
مُزہ بھولنا - (۱۶- محاورہ) مُزے بھولنا۔ ذائقہ یاد نہ رہنا۔
مُزہ پانا - (۱۶- محاورہ) لطف حاصل کرنا۔ جھٹا اٹھانا۔ لذت پانا (۳)، کیے کی
 سزا پانا۔ رنج اٹھانا۔

مُزہ پڑنا - (۱۶- محاورہ) عادت پڑنا۔ چاٹ پڑنا۔
مُزہ توہینے - (۱۶- محاورہ) لطف اس بات میں ہے۔
مُزہ ٹھیکنا - (۱۶- محاورہ) لطف کا نمایاں ہونا۔
مُزہ جانا - (۱۶- محاورہ) لطف جانا۔ رہنا۔

مُزہ جب ہے - (۱۶- محاورہ) لطف جب ہے۔
مُزہ چکھنا - (۱۶- محاورہ) ذائقہ چکھنا کسی چیز میں سے تھوڑا سا یہ معلوم کر لینے
 لیے کھانا کہ سواد ٹھیک ہے (۲)، سزا دینا۔

مُزہ چکھ لینا - (۱۶- محاورہ) تیسرے ٹھیکنا۔
مُزہ دکھانا - (۱۶- محاورہ) لطف چکھانا۔ بہار دکھانا (۲)، طنز اُچھی مستعمل
 ہے، سزا دینا۔

مُزہ دیکھنا - (۱۶- محاورہ) ذائقہ معلوم کرنا (۲)، سیر دیکھنا۔ تماشا دیکھنا
 (۲)، سزا پانا۔ پاداش کو بہنہ پانا۔

مُزہ دینا - (۱۶- محاورہ) لطف دینا۔ ذائقہ بخشنا۔ لذت دینا۔
مُزہ نہر ہونا - (۱۶- محاورہ) ذائقہ تلخ ہونا۔

مُزہ کرکرا رکھنا - (۱۶- محاورہ) رنگ میں جھنگ
 پڑنا۔ بے لطف ہونا۔

مُزہ کرنا - مُزے کرنا۔ (۱۶- محاورہ) ان کی بات کرنا۔ تماشے کی بات کرنا
 تماشا دکھانا۔ عیش کرنا۔

مُزہ کھلنا - (۱۶- محاورہ) ناگوار کرنا۔
مُزہ کھینچنا - (۱۶- محاورہ) لطف حاصل ہونا۔

مُزہ لٹ جانا - (۱۶- محاورہ) لطف جاتا رہنا۔
مُزہ لگا ہونا - (۱۶- محاورہ) چسکا ہونا۔

مُزہ لگ جانا - (۱۶- محاورہ) چسکا پڑ جانا۔
مُزہ (مُزے) لوٹنا - (۱۶- محاورہ) عیش منانا۔ لطف حاصل کرنا۔ بہار
 لوٹنا۔ جوین لوٹنا۔

مُزہ (مُزے) لینا - (۱۶- محاورہ) لطف حاصل کرنا۔ ذائقہ چکھنا۔
مُزہ ملنا - (۱۶- محاورہ) لذت آنا (۲)، سزا پانا۔ کار بد کا عین پانا۔

مُزہ لکنا - (۱۶- محاورہ) تیسرے یا تادمہ حاصل کرنا۔
مُزہ ہونا - (۱۶- محاورہ) لطف ہونا۔ سیر ہونا۔ تماشا ہونا۔

مُزہ سے - (۱۶- محاورہ) عیش ہے۔ بڑا لطف ہے۔ عجیب کیفیت ہے۔
مُزے دار - (۱۶- صفت) لذت والا۔ لذت۔ اچھے ذائقہ کا۔ پُر لکھت
 (۲)، خوش طبع۔

مُزے داری - (۱۶- صفت) لذت، لطف۔ حظ۔
مُزے سے گزرنا - (۱۶- محاورہ) آرام سے بسر ہونا۔

مُزے کا - (۱۶- صفت) با مزہ۔ پُر لطف۔
مُزے کھرنا - (۱۶- محاورہ) لطف اٹھانا۔ عیش کرنا۔ خوش فعلیاں کرنا۔

مُزے کی بات - (۱۶- صفت) ہنسی کی بات۔ تماشے کی بات۔ لطف
 کی بات۔

مُزے کے مارے - (۱۶- تابع فعل) لذت کے باعث۔ لطف
 کے باعث۔

مُزے میں - (۱۶- تابع فعل) لطف کے ساتھ۔
مُزے میں آنا - (۱۶- محاورہ) خوشی میں آنا۔ چاڑیں آنا (۲)، نا زکرنا۔

مُزے میں گزرنا - (۱۶- محاورہ) عیش و اکرام میں بسر ہونا۔
مُزے ہی مُزے میں - (۱۶- محاورہ) عیش ہی عیش ہے۔ خوب بن آئی
 ہے۔ مطلب اچھی طرح حاصل ہو گیا ہے۔

مُزے کی - رُم - زہ (ع ۱-۶) لذت۔ عیش و اکرام میں بسر ہونا۔
مُزے کی - رُم - زہ (ع ۱-۶) لذت۔ عیش و اکرام میں بسر ہونا۔

مُزے کی - رُم - زہ (ع ۱-۶) لذت۔ عیش و اکرام میں بسر ہونا۔
مُزے کی - رُم - زہ (ع ۱-۶) لذت۔ عیش و اکرام میں بسر ہونا۔

مُزے کی - رُم - زہ (ع ۱-۶) لذت۔ عیش و اکرام میں بسر ہونا۔
مُزے کی - رُم - زہ (ع ۱-۶) لذت۔ عیش و اکرام میں بسر ہونا۔

مُزے کی - رُم - زہ (ع ۱-۶) لذت۔ عیش و اکرام میں بسر ہونا۔
مُزے کی - رُم - زہ (ع ۱-۶) لذت۔ عیش و اکرام میں بسر ہونا۔

مُزے کی - رُم - زہ (ع ۱-۶) لذت۔ عیش و اکرام میں بسر ہونا۔
مُزے کی - رُم - زہ (ع ۱-۶) لذت۔ عیش و اکرام میں بسر ہونا۔

مُزے کی - رُم - زہ (ع ۱-۶) لذت۔ عیش و اکرام میں بسر ہونا۔
مُزے کی - رُم - زہ (ع ۱-۶) لذت۔ عیش و اکرام میں بسر ہونا۔

مُزے کی - رُم - زہ (ع ۱-۶) لذت۔ عیش و اکرام میں بسر ہونا۔
مُزے کی - رُم - زہ (ع ۱-۶) لذت۔ عیش و اکرام میں بسر ہونا۔

م-ث

مُتْرُودَةٌ - (مترودہ) (ث) - ۱- مذ (مؤنث) عبری - بشارت - مبارک باد - تہنیت -
 مترودہ ماد ۱۱۰۰ کلیموں والا - مبارک ہو - خوشخبری ہو -
 مترودہ بادل سے مراد عیسیٰ آپ ہی مبارک ہے - ۱۱- مثل جس سے اولاد
 کی توقع تھی وہ خود مصیبت میں گرفتار ہے -
 مترودہ پہنچانا - ۱۱- محاورہ (مترودہ) خوشخبری دینا بشارت دینا -
 مترودہ سنانا - ۱۱- محاورہ (مترودہ) غم بخیزنا لاکر دینا -
 مترکال - (مترکال) (ث) - ۱- مذ (مؤنث) شہ کی جمع - بلیوں -
 مترہ - (مترہ) (ث) - ۱- مذ (مؤنث) ایک راج، مخرج، خرگاہ -

مُسا - (مسا) (ث) - ۱- مذ (مؤنث) شام - سانچہ -
 مہسا - (مہسا) (ث) - ۱- مذ (مؤنث) بلا جلا نایج - موٹا - موٹا نایج - عربوں کے کہانے
 کا ستا نایج -

مہسا گستا - (مہسا) (ث) - ۱- مذ (مؤنث) چھڑنا نایج -
 مسابقت - (مسابقت) (ث) - ۱- مذ (مؤنث) باہم سبقت لے جانا - اگے بڑھ جانا - سبقت -
 مسابج - (مسابج) (ث) - ۱- مذ (مؤنث) ماش کرنا - اعصابی طاقت کے لیے ہاتھوں
 سے جسم کو کھانا -

مُسا عذر - (مسا عذر) (ث) - ۱- مذ (مؤنث) مسعد کی جمع - بہت سی مسجدیں -
 مساح - (مساح) (ث) - ۱- مذ (مؤنث) پیمائش کرنے والا - ناپنے والا -

مُسا حث - (مسا حث) (ث) - ۱- مذ (مؤنث) زمین کی پیمائش -
 مساس - (مساس) (ث) - ۱- مذ (مؤنث) چھنا - ہاتھ پھیرنا - ہاتھ سے ملنا - عورت
 کے کسی حصہ جسم کو ہاتھ سے کھنا -

مُسا عذر - (مسا عذر) (ث) - ۱- مذ (مؤنث) مددگار - یاد دہانہ - معاون - موافق -
 مساعذت - (مساعذت) (ث) - ۱- مذ (مؤنث) مدد -

مُسا عی - (مسا عی) (ث) - ۱- مذ (مؤنث) شمشیر - کوششیں -
 مساعی - (مساعی) (ث) - ۱- مذ (مؤنث) شمشیر - کوششیں -

مُسا فرت - (مسا فرت) (ث) - ۱- مذ (مؤنث) سفر -
 مسافرت - (مسافرت) (ث) - ۱- مذ (مؤنث) سفر -

مُسا فرت - (مسا فرت) (ث) - ۱- مذ (مؤنث) سفر -
 مسافرت - (مسافرت) (ث) - ۱- مذ (مؤنث) سفر -

مُسا فرت - (مسا فرت) (ث) - ۱- مذ (مؤنث) سفر -
 مسافرت - (مسافرت) (ث) - ۱- مذ (مؤنث) سفر -

مُسا فرت - (مسا فرت) (ث) - ۱- مذ (مؤنث) سفر -
 مسافرت - (مسافرت) (ث) - ۱- مذ (مؤنث) سفر -

مُسا فرت - (مسا فرت) (ث) - ۱- مذ (مؤنث) سفر -
 مسافرت - (مسافرت) (ث) - ۱- مذ (مؤنث) سفر -

مُسا فرت - (مسا فرت) (ث) - ۱- مذ (مؤنث) سفر -
 مسافرت - (مسافرت) (ث) - ۱- مذ (مؤنث) سفر -

مُسا فرت - (مسا فرت) (ث) - ۱- مذ (مؤنث) سفر -
 مسافرت - (مسافرت) (ث) - ۱- مذ (مؤنث) سفر -

مُسا فرت - (مسا فرت) (ث) - ۱- مذ (مؤنث) سفر -
 مسافرت - (مسافرت) (ث) - ۱- مذ (مؤنث) سفر -

مُسا فرت - (مسا فرت) (ث) - ۱- مذ (مؤنث) سفر -
 مسافرت - (مسافرت) (ث) - ۱- مذ (مؤنث) سفر -

مُسا فرت - (مسا فرت) (ث) - ۱- مذ (مؤنث) سفر -
 مسافرت - (مسافرت) (ث) - ۱- مذ (مؤنث) سفر -

مُسا فرت - (مسا فرت) (ث) - ۱- مذ (مؤنث) سفر -
 مسافرت - (مسافرت) (ث) - ۱- مذ (مؤنث) سفر -

مُسا فرت - (مسا فرت) (ث) - ۱- مذ (مؤنث) سفر -
 مسافرت - (مسافرت) (ث) - ۱- مذ (مؤنث) سفر -

مُسا فرت - (مسا فرت) (ث) - ۱- مذ (مؤنث) سفر -
 مسافرت - (مسافرت) (ث) - ۱- مذ (مؤنث) سفر -

م-س

مُسن - (مسن) (ث) - ۱- مذ (مؤنث) کاروان -

مُسنین - (مسنین) (ث) - ۱- مذ (مؤنث) گزراؤں - جو نہیں نکلتا -

مُس - (مس) (ث) - ۱- مذ (مؤنث) چھینے کا فعل (م)، گاؤں - رخصت - میل - رجحان (۲) چھوڑنا
 ہاتھ لگانا نکلتا - مگر گزراؤں -

مُس کرنا - (مسن کرنا) (ث) - ۱- محاورہ (مسن کرنا) چھوڑنا - ہاتھ لگانا -

مُس ہونا - (مسن ہونا) (ث) - ۱- محاورہ (مسن ہونا) رخصت ہونا - میل ہونا - لگاؤ ہونا -

مُس - (مس) (ث) - ۱- مذ (مؤنث) تاننا - ایک وحالت جس کے برتن وغیرہ
 بنتے ہیں -

مُس خام - (مس خام) (ث) - ۱- مذ (مؤنث) کچا تاننا - وہ تاننا جو کان سے نکلنے کے بعد بھی
 صاف نہ کیا گیا ہو -

مُس گزرا - (مس گزرا) (ث) - ۱- مذ (مؤنث) تاننے کے برتن بنانے والا - ٹھٹھیرا - کسیرا -

مُس لاکھل - (مس لاکھل) (ث) - ۱- مذ (مؤنث) خالص تاننا -

مُس - (مس) (ث) - ۱- مذ (مؤنث) سیاہی روشنائی (۲) مذ (مؤنث) بہانہ - حیلہ عذر -

مُس (Miss) - (مس) (ث) - ۱- مذ (مؤنث) دو شہرہ - ناکھنڈا لڑکی (۲) نشانے کا خطا مانا
 ناکام رہنا (۳) نہ مل سکا (م) نہ پکڑ سکا -

مُس کرنا - (مس کرنا) (ث) - ۱- مذ (مؤنث) مرکب - مچھلنا - چونکنا - غلطی سے چھوڑنا -

مُس کرنا - (مس کرنا) (ث) - ۱- مذ (مؤنث) مرکب - مچھلنا - چونکنا - غلطی سے چھوڑنا -

مُس کرنا - (مس کرنا) (ث) - ۱- مذ (مؤنث) مرکب - مچھلنا - چونکنا - غلطی سے چھوڑنا -

مساوات نکالنا۔ (۱۶- مجاوردہ) مساوات کی نامعلوم مقدار کی قیمت دریافت کرنا۔

مساوی۔ دم۔ سادہ، (۱۷- صفت) برابر یکساں

مساوی الاضلاع۔ (۱۷- ع۔ ۱۰- م) (۱۷- م) وہ شکل جس کے سب اضلاع برابر ہوں۔

مساہلت۔ دم۔ سادہ۔ نت۔ (۱۷- م) (۱۷- م) تساہل کرنا۔ مستحق کرنا۔

مساہمت۔ دم۔ سادہ۔ ملت۔ (۱۷- م) (۱۷- م) شرکت۔ سماجاء۔ قرضہ اندازی۔

مساہل۔ دم۔ سادہ۔ (۱۷- ع۔ ۱۰- م) (۱۷- م) مسد کی جمع۔ سوالات۔ پوچھی ہوئی باتیں۔ امور دریافت طلب۔ (۱۷- م) مذہبی قواعد یا احکام۔

اصول مذہب۔

مستبیب۔ دم۔ سادہ۔ (۱۷- ع۔ ۱۰- م) (۱۷- م) سبب کہا گیا۔ باعث۔ وجہ۔

مستبیب۔ دم۔ سادہ۔ (۱۷- ع۔ ۱۰- م) (۱۷- م) سبب پیدا کرنے والا۔

مستبیب الاسباب۔ (۱۷- ع۔ ۱۰- م) (۱۷- م) سبب پیدا کرنے والا۔

مستبیح حقیقی۔ (۱۷- ع۔ ۱۰- م) (۱۷- م) سبب کا اصل پیدا کرنے والا۔ خداوند تعالیٰ۔

مستبیح۔ دم۔ سادہ۔ (۱۷- ع۔ ۱۰- م) (۱۷- م) سبب پیدا کرنے والا۔ وسیع کرنے والا۔

مستبیح کو باری سے یاد کرنے والا۔

مستبحان طلاء علی۔ (۱۷- ع۔ ۱۰- م) (۱۷- م) فرشتوں سے مراد ہے۔

مستبیح۔ دم۔ سادہ۔ (۱۷- ع۔ ۱۰- م) (۱۷- م) شہادت کی انگلی تیار۔

مستبیح۔ دم۔ سادہ۔ (۱۷- ع۔ ۱۰- م) (۱۷- م) سات بھوکھا گیا۔ سات پیلو والی چیز۔ سات برابر فضول والی مشکل (۱۷- م) سات مصرعوں کے بند والے شعر۔

مستبوق۔ دم۔ سادہ۔ (۱۷- ع۔ ۱۰- م) (۱۷- م) سابق۔ گزرا ہوا۔ گذشتہ (۱۷- م) اصطلاح فقہ میں وہ شخص جو ایک یا کئی رکعتیں نیت سے ہو جانے کے بعد جماعت میں اگر شریک ہوا ہو۔

مستبوق الذکر۔ (۱۷- ع۔ ۱۰- م) (۱۷- م) جس کا سابق میں ذکر آچکا ہو۔ جو بیان کیا جا چکا ہو۔

مست۔ (۱۷- ع۔ ۱۰- م) (۱۷- م) متوالا۔ مدہ مآت۔ نشہ میں چور۔ مخمور (۱۷- م) پر شہوت۔

مست۔ (۱۷- ع۔ ۱۰- م) (۱۷- م) متوالا۔ مدہ مآت۔ نشہ میں چور۔ مخمور (۱۷- م) پر شہوت۔

مست۔ (۱۷- ع۔ ۱۰- م) (۱۷- م) متوالا۔ مدہ مآت۔ نشہ میں چور۔ مخمور (۱۷- م) پر شہوت۔

مست۔ (۱۷- ع۔ ۱۰- م) (۱۷- م) متوالا۔ مدہ مآت۔ نشہ میں چور۔ مخمور (۱۷- م) پر شہوت۔

مست۔ (۱۷- ع۔ ۱۰- م) (۱۷- م) متوالا۔ مدہ مآت۔ نشہ میں چور۔ مخمور (۱۷- م) پر شہوت۔

مست۔ (۱۷- ع۔ ۱۰- م) (۱۷- م) متوالا۔ مدہ مآت۔ نشہ میں چور۔ مخمور (۱۷- م) پر شہوت۔

مست۔ (۱۷- ع۔ ۱۰- م) (۱۷- م) متوالا۔ مدہ مآت۔ نشہ میں چور۔ مخمور (۱۷- م) پر شہوت۔

مست۔ (۱۷- ع۔ ۱۰- م) (۱۷- م) متوالا۔ مدہ مآت۔ نشہ میں چور۔ مخمور (۱۷- م) پر شہوت۔

مست۔ (۱۷- ع۔ ۱۰- م) (۱۷- م) متوالا۔ مدہ مآت۔ نشہ میں چور۔ مخمور (۱۷- م) پر شہوت۔

مست۔ (۱۷- ع۔ ۱۰- م) (۱۷- م) متوالا۔ مدہ مآت۔ نشہ میں چور۔ مخمور (۱۷- م) پر شہوت۔

مست۔ (۱۷- ع۔ ۱۰- م) (۱۷- م) متوالا۔ مدہ مآت۔ نشہ میں چور۔ مخمور (۱۷- م) پر شہوت۔

مست۔ (۱۷- ع۔ ۱۰- م) (۱۷- م) متوالا۔ مدہ مآت۔ نشہ میں چور۔ مخمور (۱۷- م) پر شہوت۔

مست۔ (۱۷- ع۔ ۱۰- م) (۱۷- م) متوالا۔ مدہ مآت۔ نشہ میں چور۔ مخمور (۱۷- م) پر شہوت۔

مست۔ (۱۷- ع۔ ۱۰- م) (۱۷- م) متوالا۔ مدہ مآت۔ نشہ میں چور۔ مخمور (۱۷- م) پر شہوت۔

کی بیماری کی ضروریات اور لوازم۔ جیسے تک، مرتج، ہنس، پیاز، مینا کا مسئلہ ہے (۱۷- م) گونا گویں، گوگھر وغیرہ۔

مسالما۔ (۱۷- مجاوردہ) مسالما مرکب کرنا۔ مسالما تیار کرنا۔

مسالما ٹھکانا۔ (۱۷- مجاوردہ) گونا گواہی وغیرہ لگانا۔

مسالما ڈالنا۔ (۱۷- مجاوردہ) کھانے میں گرم مسالما وغیرہ ڈالنا۔

مسالما دار۔ (۱۷- ص) وہ چیز جس میں مسالما پڑا ہوا ہو چڑھی۔

مسالما کا تیل۔ (۱۷- م) ایک قسم کا مرکب تیل جس کی خوشبو تیز ہوتی ہے۔

مسالما کی سہل۔ (۱۷- م) مسالما پینے کی سہل۔

مسالما لک۔ دم۔ سادہ۔ (۱۷- ع۔ ۱۰- م) (۱۷- م) مسک کی جج۔ راہیں راستے طریقے۔

مسالما۔ (۱۷- م) وہ مجلس جس میں سلام پڑھے جائیں (۱۷- م) باہم سلام پڑھنا۔ خاص طور سے شہداء کے کربلا کی یاد میں سلام پڑھنا۔

مسالما۔ (۱۷- م) وہ مجلس جس میں سلام پڑھے جائیں (۱۷- م) باہم سلام پڑھنا۔ خاص طور سے شہداء کے کربلا کی یاد میں سلام پڑھنا۔

مسالما۔ (۱۷- م) وہ مجلس جس میں سلام پڑھے جائیں (۱۷- م) باہم سلام پڑھنا۔ خاص طور سے شہداء کے کربلا کی یاد میں سلام پڑھنا۔

مسالما۔ (۱۷- م) وہ مجلس جس میں سلام پڑھے جائیں (۱۷- م) باہم سلام پڑھنا۔ خاص طور سے شہداء کے کربلا کی یاد میں سلام پڑھنا۔

مسالما۔ (۱۷- م) وہ مجلس جس میں سلام پڑھے جائیں (۱۷- م) باہم سلام پڑھنا۔ خاص طور سے شہداء کے کربلا کی یاد میں سلام پڑھنا۔

مسالما۔ (۱۷- م) وہ مجلس جس میں سلام پڑھے جائیں (۱۷- م) باہم سلام پڑھنا۔ خاص طور سے شہداء کے کربلا کی یاد میں سلام پڑھنا۔

مسالما۔ (۱۷- م) وہ مجلس جس میں سلام پڑھے جائیں (۱۷- م) باہم سلام پڑھنا۔ خاص طور سے شہداء کے کربلا کی یاد میں سلام پڑھنا۔

مسالما۔ (۱۷- م) وہ مجلس جس میں سلام پڑھے جائیں (۱۷- م) باہم سلام پڑھنا۔ خاص طور سے شہداء کے کربلا کی یاد میں سلام پڑھنا۔

مسالما۔ (۱۷- م) وہ مجلس جس میں سلام پڑھے جائیں (۱۷- م) باہم سلام پڑھنا۔ خاص طور سے شہداء کے کربلا کی یاد میں سلام پڑھنا۔

مسالما۔ (۱۷- م) وہ مجلس جس میں سلام پڑھے جائیں (۱۷- م) باہم سلام پڑھنا۔ خاص طور سے شہداء کے کربلا کی یاد میں سلام پڑھنا۔

مسالما۔ (۱۷- م) وہ مجلس جس میں سلام پڑھے جائیں (۱۷- م) باہم سلام پڑھنا۔ خاص طور سے شہداء کے کربلا کی یاد میں سلام پڑھنا۔

مسالما۔ (۱۷- م) وہ مجلس جس میں سلام پڑھے جائیں (۱۷- م) باہم سلام پڑھنا۔ خاص طور سے شہداء کے کربلا کی یاد میں سلام پڑھنا۔

مسالما۔ (۱۷- م) وہ مجلس جس میں سلام پڑھے جائیں (۱۷- م) باہم سلام پڑھنا۔ خاص طور سے شہداء کے کربلا کی یاد میں سلام پڑھنا۔

مسالما۔ (۱۷- م) وہ مجلس جس میں سلام پڑھے جائیں (۱۷- م) باہم سلام پڑھنا۔ خاص طور سے شہداء کے کربلا کی یاد میں سلام پڑھنا۔

مسالما۔ (۱۷- م) وہ مجلس جس میں سلام پڑھے جائیں (۱۷- م) باہم سلام پڑھنا۔ خاص طور سے شہداء کے کربلا کی یاد میں سلام پڑھنا۔

مسالما۔ (۱۷- م) وہ مجلس جس میں سلام پڑھے جائیں (۱۷- م) باہم سلام پڑھنا۔ خاص طور سے شہداء کے کربلا کی یاد میں سلام پڑھنا۔

مسالما۔ (۱۷- م) وہ مجلس جس میں سلام پڑھے جائیں (۱۷- م) باہم سلام پڑھنا۔ خاص طور سے شہداء کے کربلا کی یاد میں سلام پڑھنا۔

مسالما۔ (۱۷- م) وہ مجلس جس میں سلام پڑھے جائیں (۱۷- م) باہم سلام پڑھنا۔ خاص طور سے شہداء کے کربلا کی یاد میں سلام پڑھنا۔

مسالما۔ (۱۷- م) وہ مجلس جس میں سلام پڑھے جائیں (۱۷- م) باہم سلام پڑھنا۔ خاص طور سے شہداء کے کربلا کی یاد میں سلام پڑھنا۔

مسالما۔ (۱۷- م) وہ مجلس جس میں سلام پڑھے جائیں (۱۷- م) باہم سلام پڑھنا۔ خاص طور سے شہداء کے کربلا کی یاد میں سلام پڑھنا۔

مسالما۔ (۱۷- م) وہ مجلس جس میں سلام پڑھے جائیں (۱۷- م) باہم سلام پڑھنا۔ خاص طور سے شہداء کے کربلا کی یاد میں سلام پڑھنا۔

مسالما۔ (۱۷- م) وہ مجلس جس میں سلام پڑھے جائیں (۱۷- م) باہم سلام پڑھنا۔ خاص طور سے شہداء کے کربلا کی یاد میں سلام پڑھنا۔

مسالما۔ (۱۷- م) وہ مجلس جس میں سلام پڑھے جائیں (۱۷- م) باہم سلام پڑھنا۔ خاص طور سے شہداء کے کربلا کی یاد میں سلام پڑھنا۔

مسالما۔ (۱۷- م) وہ مجلس جس میں سلام پڑھے جائیں (۱۷- م) باہم سلام پڑھنا۔ خاص طور سے شہداء کے کربلا کی یاد میں سلام پڑھنا۔

مست ہاتھی - (۱۷) ہاتھی چوستی کے باعث دیوانہ ہو۔
مست ہو جانا - (۱۱) مصل مرکب (متوالا ہو جانا - نشتر میں چھ ہو جانا (۲) ہے، خوش ہونا (۳)، اترنا - گھنڈ کرنا - مغرور ہونا، اہم، اہمیت میں بھرنا۔
 پرانا (۱۵) جوانی میں بھرنا، خوشی میں آنا بہت خوش ہونا (۱۶) دیوانہ ہونا۔
 جنوں ہونا۔ مجذوب ہونا۔
مستوں کے گھوڑے - (۱۶) مثل (نہایت احمق - نہایت بے وقوف -
مستاجر - (مسن - تاجر) (ع - ۱) مذ (ٹھیکہ دار - اجارہ دہ لینے والا - زمیندار -
مستاجر سرکاری - (ع - ۱) مذ (سرکاری ٹھیکہ دار -
مستاجری - (مسن - تاج - بی، بی) (ت - ۱) مش (ٹھیکہ داری - چارہ داری
مستاصل - (مسن - تاج - صل) (ع - ۱) صف (جڑے اکھڑا ہوا - برباد تباہ
مستاصل - (مسن - تاج - صل) (ع - ۱) مذ (جڑے اکھڑے والا -
مستامین - (مسن - تاج - مین) (ع - ۱) مذ (پناہ مانگنے والا - امن چاہنے
 والا -
مستان - (مسن - تاج - ان) (ع - ۱) مذ (مجذوب دیوانہ - جنوں - اس سے میں
 بطور واحد مستعمل ہے -
مستان شاہ - (ع - ۱) مذ (مست فقیر - گدائے مجذوب -
مستانا - (مسن - تاج - نا) (ع - ۱) مصل (مستی پرانا - مدہ پرانا - گرمانا -
مستانہ - (مسن - تاج - نا) (ع - ۱) صف (مستی کی طرح یا مانند - متوالے
 کی طرح - مجذوب -
مستانہ چال - (ت - ۱) مش (مستوں کے کسی لاکھڑائی چال - جھوٹی
 چال -
مستانس - (مسن - تاج - نین) (ع - ۱) صف (ألغت رکھنے والا - جوگر -
 آرام پانے والا -
مستانہ - (ع - ۱) صف (پہل کرنے والا (۲)، چدا - علیحدہ (۳)
 (اصطلاح نجوم) وہ جملہ جس کو سابقہ جملے سے معنا تو مربوط ہو مگر لفظاً
 کچھ تعلق نہ ہو -
مستانہ - (مسن - تاج - نی) (ع - ۱) مذ (ع - ۱) صف (دو - ۱) مش (مرد میں بھری ہوئی
 عورت (۲) دیوانہ - مجنونہ -
مستانہ - (ع - ۱) مذ (نالائق - مزادار -
مستبد - (مسن - تاج - بد) (ع - ۱) صف (اکیلے کام کرنے والا (۲) خود نگار
 مطلق العنان (جمع) مستبدین -
مستبدانہ - (مسن - تاج - بد) (ع - ۱) صف (خود مختارانہ - مطلق العنانہ -
مستبدل - (ع - ۱) صف (بدل کیا گیا - بدل جانا گیا -
مستبدل - (ع - ۱) صف (بدل کرنے والا - بدل جانے والا -
مستبشر - (ع - ۱) صف (خوش خبری جاننے والا - خوش ہونے والا -
مستبصر - (ع - ۱) صف (بینائی جاننے والا - جس کا دل بینا ہو -
مستبصر - (مسن - تاج - عد) (ع - ۱) صف (دور - بعید (۲) دور از قیاس -
 دشوار -
مستبر - (مسن - تاج - بر) (ع - ۱) صف (پھینے والا - پوشیدہ -
مستثنیٰ - (مسن - تاج - نا) (ع - ۱) صف (استثنا کیا گیا - الگ کیا گیا - چنا

گیا - چھوڑنا ہو - ماسوا - الا - مگر بجز (۳) وہ شخص یا چیز جسے علیحدہ
 کر دیا گیا ہو (۳) اصطلاح کڑمیں وہ اسم جو صرف استثنا کے لہجہ
 واقع ہوا ہو (جمع) مستثنیات -
مستثنیٰ کرنا - (ع - ۱) محاورہ (علیحدہ کرنا - الگ کرنا - کسی میں سے کسی
 کو جدا کرنا -
مستثنیٰ منہ - (ع - ۱) صف (وہ شخص یا چیز جس میں سے مستثنیٰ کو الگ
 کر دیا گیا ہو -
مستثنیات - (مسن - تاج - ث - ن - یات) (ع - ۱) صف (مستثنیٰ کی جمع - الگ
 کیے ہوئے امور -
مستجاب - (مسن - تاج - جاب) (ع - ۱) صف (جواب دیا گیا (مجازاً) قبول
 کیا گیا - مانا گیا -
مستجاب الدعوات - (ع - ۱) مش (مستجاب کی دعائیں قبول ہو - جس کی دعا مانگا
 الہی میں شرف قبولیت پائے -
مستجمع - (مسن - تاج - جم) (ع - ۱) مذ (جمع کرنے والا -
مستجمع - (مسن - تاج - جم) (ع - ۱) مذ (جمع ہونے کی جگہ (۲)
 جمع کیا گیا -
مستجمع الصفات - (ع - ۱) صف (جس میں تمام خوبیاں جمع ہوں -
مستجیب - (مسن - تاج - جیب) (ع - ۱) صف (جواب دینے والا - دُعا
 قبول کرنے والا -
مستجیب الدعوات - (ع - ۱) صف (دعائیں قبول کرنے والا - مُراد
 خدائے تعالیٰ -
مستحاضہ - (مسن - تاج - حاض) (ع - ۱) صف (وہ عورت جسے معمول سے
 زیادہ عرصہ تک خون آئے -
مستحب - (مسن - تاج - حبت) (ع - ۱) صف (محبت کیا گیا - پسند کیا گیا
 پسندیدہ (۲) (ع - ۱) مذ (فہم کی اصطلاح میں عبادت میں سے
 وہ فعل جسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا ہو یا اس
 کا ثواب بیان فرمایا ہو - جمع - مستحبات -
مستحسن - (مسن - تاج - حسن) (ع - ۱) صف (نیک - پسندیدہ - خوب بہتر -
مستحضر - (مسن - تاج - حضر) (ع - ۱) صف (یاد رکھا ہوا - وہ بات جو
 یاد ہو -
مستحق - (مسن - تاج - حق) (ع - ۱) صف (حق دار - حق رکھنے والا - دعوے
 دار (۲) لائق - قابل - مزادار (۳) درویش - مفلس - مسکین - نادار
 جمع - مستحقین -
مستحکم - (مسن - تاج - حکم) (ع - ۱) صف (پکا - مضبوط - سخت - قائم کرنے
 والا - اٹل - مضبوط -
مستعمل - (مسن - تاج - عمل) (ع - ۱) صف (بدلا ہوا - ایک حال سے دوسرے
 حال میں بھرنے والا (۲) نامکن - محال -
مستخرج - (مسن - تاج - راج) (ع - ۱) صف (نکالا ہوا - خارج کیا ہوا -
مستخلص - (مسن - تاج - لیس) (ع - ۱) صف (چھوڑا گیا - خلاص
 کیا گیا -

مستعدی۔ (مسن بندہ ہی) (ع۔ صف) استعدا کرنے والا، خواہش مند۔ کسی بات کا چاہنے والا۔ بطبعی۔

مستعدی۔ (مسن۔ ث۔ ویر) (ع۔ صف) گول۔ مدد۔

مستعدی۔ (مسن۔ ث۔ مد) (ع۔ صف) اندک یا زیادہ پس کیا گیا۔

مستعدی۔ (ع۔ صف) ہدایت طلب کرنے والا۔ سیدھی راہ چاہنے والا۔ مزید۔

مستعدی۔ (ع۔ صف) رضا چاہنے والا۔ خوشنودی چاہنے والا۔

مستعدی۔ (مسن۔ ث۔ ری) (از۔ ا۔ مذ) (ع۔ صف) اہل حرفہ کا اسٹری۔ کاری کر کے اسٹادی، کسی پیشہ کا کاری گر۔ خصوصاً۔

لوہار۔ برہمنی۔ مہار۔

مستعدی۔ (مسن۔ ث۔ نا۔ ذ) (ع۔ صف) بڑھا گیا۔ زیادہ کیا گیا۔

آنزوں (۲) عرض میں وہ غزل جس کے ہر مصرعے یا شعر کے بعد ایسا زائد لکھا جاتا ہے جو اسی مصرعے کے وزن اول اور لڑکی

آخر کے برابر ہو۔ مثلاً جسے چھپ چھپ کر جو باتوں کو پیلے جاتے ہو۔ بچ بتاؤ تمہیں اب کس سے نیا بیار ہوا۔ اس کا باعث تو

مستعدی۔ (مسن۔ ث۔ ق) (ع۔ صف) وہ جو اپنی طلب کے (۲) وہ شخص سے جلد بڑھتی بیماری ہو۔

مستعدی۔ (مسن۔ ث۔ شاد) (ع۔ صف) وہ جس سے مشورہ کیا جائے۔

مستعدی۔ (ع۔ صف) وہ شخص جس سے تازنی مشورہ لیا جائے۔

مستعدی۔ (مسن۔ ث۔ یق) (ع۔ صف) وہ فرنگی جو مشرقی زبانوں اور علوم کا ماہر ہو۔

مستعدی۔ (ع۔ صف) شہادت طلب کرنے والا۔

مستعدی۔ (ع۔ صف) مشورہ کرنے والا۔

مستعدی۔ (ع۔ صف) شفا خانہ۔ ہسپتال۔

مستعدی۔ (ع۔ صف) روشنی چاہنے والا۔ روشنی قبول کرنے والا۔

مستعدی۔ (مسن۔ ث۔ طا۔ ب) (ع۔ صف) خوش گوار۔ اچھا۔ عمدہ۔

مستعدی۔ (ع۔ صف) مبارک۔ نعمت۔ سعید۔ نیک۔

مستعدی۔ (مسن۔ ث۔ طبع) (ع۔ صف) استطاعت رکھنے والا۔ صاحبِ مقدور۔

مستعدی۔ (مسن۔ ث۔ طبل) (ع۔ صف) طویل۔ لمبا۔ وہ چار ضلعوں کی شکل جس کے چاروں زاویے قائمے اور مقابل کے قطبے برابر ہوں۔

مستعدی۔ (مسن۔ ث۔ نظر) (ع۔ صف) مدد چاہنے والا۔ امداد کا خواہش مند۔

مستعدی۔ (مسن۔ ث۔ عا) (ع۔ صف) مانگا ہوا۔ اُدھار لیا ہوا۔ چند روزہ جیسے حیات مستعد۔

مستعدی۔ (ع۔ صف) مدد طلب کیا گیا (۲) الیٰ تعالیٰ کا ایک نام۔

مستعدی۔ (مسن۔ ث۔ جن) (ع۔ صف) تعبیل کرنے والا۔ جلدی کرنے والا۔

والا۔ جلمہ یازم۔

مستعدی۔ (مسن۔ ث۔ ج۔ لا۔ ذ) (ع۔ صف) جلد بازار۔

مستعدی۔ (مسن۔ ث۔ حد) (ع۔ صف) آگاہ۔ تیار۔ موجود۔ کمر بستہ۔

مستعدی۔ (مسن۔ ث۔ حد) (ع۔ صف) آگاہ۔ تیار۔ موجود۔ کمر بستہ۔

مستعدی۔ (مسن۔ ث۔ حد) (ع۔ صف) آگاہ۔ تیار۔ موجود۔ کمر بستہ۔

مستعدی۔ (مسن۔ ث۔ حد) (ع۔ صف) آگاہ۔ تیار۔ موجود۔ کمر بستہ۔

مستعدی۔ (مسن۔ ث۔ حد) (ع۔ صف) آگاہ۔ تیار۔ موجود۔ کمر بستہ۔

مستعدی۔ (مسن۔ ث۔ حد) (ع۔ صف) آگاہ۔ تیار۔ موجود۔ کمر بستہ۔

مستعدی۔ (مسن۔ ث۔ حد) (ع۔ صف) آگاہ۔ تیار۔ موجود۔ کمر بستہ۔

مستعدی۔ (مسن۔ ث۔ حد) (ع۔ صف) آگاہ۔ تیار۔ موجود۔ کمر بستہ۔

مستعدی۔ (مسن۔ ث۔ حد) (ع۔ صف) آگاہ۔ تیار۔ موجود۔ کمر بستہ۔

مستعدی۔ (مسن۔ ث۔ حد) (ع۔ صف) آگاہ۔ تیار۔ موجود۔ کمر بستہ۔

مستعدی۔ (مسن۔ ث۔ حد) (ع۔ صف) آگاہ۔ تیار۔ موجود۔ کمر بستہ۔

مستعدی۔ (مسن۔ ث۔ حد) (ع۔ صف) آگاہ۔ تیار۔ موجود۔ کمر بستہ۔

مستعدی۔ (مسن۔ ث۔ حد) (ع۔ صف) آگاہ۔ تیار۔ موجود۔ کمر بستہ۔

مستعدی۔ (مسن۔ ث۔ حد) (ع۔ صف) آگاہ۔ تیار۔ موجود۔ کمر بستہ۔

مستعدی۔ (مسن۔ ث۔ حد) (ع۔ صف) آگاہ۔ تیار۔ موجود۔ کمر بستہ۔

مستعدی۔ (مسن۔ ث۔ حد) (ع۔ صف) آگاہ۔ تیار۔ موجود۔ کمر بستہ۔

مستعدی۔ (مسن۔ ث۔ حد) (ع۔ صف) آگاہ۔ تیار۔ موجود۔ کمر بستہ۔

مستعدی۔ (مسن۔ ث۔ حد) (ع۔ صف) آگاہ۔ تیار۔ موجود۔ کمر بستہ۔

مستعدی۔ (مسن۔ ث۔ حد) (ع۔ صف) آگاہ۔ تیار۔ موجود۔ کمر بستہ۔

مستعدی۔ (مسن۔ ث۔ حد) (ع۔ صف) آگاہ۔ تیار۔ موجود۔ کمر بستہ۔

مستعدی۔ (مسن۔ ث۔ حد) (ع۔ صف) آگاہ۔ تیار۔ موجود۔ کمر بستہ۔

مستعدی۔ (مسن۔ ث۔ حد) (ع۔ صف) آگاہ۔ تیار۔ موجود۔ کمر بستہ۔

مستعدی۔ (مسن۔ ث۔ حد) (ع۔ صف) آگاہ۔ تیار۔ موجود۔ کمر بستہ۔

کرتے والا - فائدہ اٹھانے والا -

مُسْتَفِیض - (مُس - ت - فیض، (ع - صفت) فیض چاہنے والا - فیض کا خواہاں
(۲) فائدہ اٹھانے والا -

مُسْتَقْبِل - (مُس - ت - ق - بیل، (ع - صفت) آگے آنے والا - آئندہ (۲) وہ فعل جو آنے والے وقت سے تعلق رکھے - زمانہ آئندہ -

مُسْتَقَر - (مُس - ت - ق - ر، (ع - صفت) ٹھہرنے کی جگہ بجائے قرار - ٹھکانہ -

مُسْتَقِل - (مُس - ت - ق - ل، (ع - صفت) مضبوط - مستحکم - اٹل - برقرار - پائدار
لگا - قائم - ہمیشہ - دوام -

مُسْتَقِلِ اسامی - (ع - ت - ا - مذ) مستقل جگہ - پکی اساسی -
پائیدار لوگسی -

مُسْتَقِل زہن - (۱۱ - محاورہ) قائم رہنا - برقرار رہنا جہاں رہنا -

مُسْتَقِل مزاج - (ع - صفت) وہ جس کے مزاج میں استقلال ہو -

مُسْتَقِل ہونا - (۱۶ - مص مرکب) پکا ہونا - پائدار ہونا (۲) قائم ہونا - برقرار ہونا
(۳) ملازمت پر پکا ہونا -

مُسْتَقِل - (مُس - ت - ق - ل، (ف - ا - م) کسی عہدے پر پکا ملازم کیا جانا
(Confirmtion) مضبوطی مستحکم -

مُسْتَقِیم - (مُس - ت - ق - یم، (ع - صفت) سیدھا راستہ - درست مضبوط -

مُسْتَبَک - (مُس - ت - ب - ک، (س - ا - م) ہاتھی کا ماتھا (۲) ماتھا پریشانی -

مُسْتَبْر - (مُس - ت - ب - ر، (ع - صفت) حکیم - مغرور - گھمبڑی -

مُسْتَبْط - (ع - ف) کفایت چاہنے والا -

مُسْتَبْذ - (ع - صفت) لذت پانے والا -

مُسْتَبْذِم - (مُس - ت - ب - ذ - م، (ع - صفت) کوئی کام اپنے اوپر لازم کرنا والا -

مُسْتَبْذِم سزما - (ع - صفت) سزا کے قابل -

مُسْتَبْجِد - (ع - صفت) امداد چاہنے والا -

مُسْتَبْشِر - (مُس - ت - ش - ر، (م - ع - صفت) ہمیشہ رہنے والا - دائم مضبوط
پائدار مستقل - پیوستہ -

مُسْتَبْغ - (مُس - ت - ب - غ، (ع - صفت) سٹنے والا -

مُسْتَبْذِن - (مُس - ت - ب - ذ - ن، (ع - صفت) ٹھیکیں (۲) مجازاً حاجت مند
ضرورت والا - جمع مستندان -

مُسْتَبْذِن - (مُس - ت - ب - ذ - ن، (ع - صفت) سنبھلایا ہوا - تصدیق کیا ہوا - مصدقہ
میں قابل اعتبار - قابل اعتماد - معتبر -

مُسْتَبْطِ رُس - (مُس - ت - ب - ط - ر، (ع - صفت) اندھا گیا - چنایا گیا - چھٹایا گیا -

مُسْتَبْضِر - (ع - صفت) مدد طلب کیا گیا - مدد مانگا ہوا -

مُسْتَبْضِر - (ع - ف) مدد طلب کرنے والا - مدد مانگنے والا -

مُسْتَبْشِر - (ع - صفت) بروغن - روشنی طلب کرنے والا -

مُسْتَوْبِح - (مُس - ت - و - ب - ح، (ع - صفت) واجب کرنے والا - لازم
ہونے والا - لائق - قابل - سزاوار -

مُسْتَوْبِح - (ع - صفت) امانت رکھا گیا -

مُسْتَوْبِح - (ع - صفت) امانت کا تحران -

مُسْتَوْر - (مُس - ت - و - ر، (ع - صفت) چھپا ہوا - پوشیدہ - مخفی -

مُسْتَوْرَات - (مُس - ت - و - ر، (ت - ا - م) مستورہ کی جمع - پردہ نشین
خوشیں - مجازاً عورتیں -

مُسْتَوْبِح - (مُس - ت - و - ب - ح، (ع - صفت) پورا لینے والا (۲) مجازاً، محاسب اعلیٰ
جو لینے مانتوں کے حساب کتاب کی حاجت کرے -

مُسْتَوْبِل - (مُس - ت - و - ب - ل، (ع - صفت) پورا لینے والا (۲) مجازاً، محاسب اعلیٰ
جو لینے مانتوں کے حساب کتاب کی حاجت کرے -

مُسْتَوْبِل - (مُس - ت - و - ب - ل، (ع - صفت) غالب چھا جانے والا - غالب پانے والا -

مُسْتَوْبِل - (مُس - ت - و - ب - ل، (ع - صفت) مبرا - ہمار -

مُسْتَشَام - (مُس - ت - ش - م، (ع - صفت) سرگشتہ - حیران - پریشان -

مُسْتَشَم - (ع - صفت) کسی کو حقیر سمجھنا -

مُسْتَشَى - (مُس - ت - ش - ی، (ت - ا - م) نشہ خمار - کیفیت - مدھ (۲) مدھوشی -
بے ہوشی - بدستی - متوالا (۳) رغبت جماع - جوش شہوت - باہ
چل - خواہش نفسانی - وہ حالت یا کیفیت جو پرندوں یا دوسرے
حیوانات کی بچان شہوت کے وقت ہوتی ہے - جیسے مور - کبوتر -
شیر - اسی کی مستی دم، وہ پانی جو جوش شہوت میں حیوانات کے کان گرنے
یا آنکھ کے قریب سے پھینکا ہے (۵) حیوانات کی منی (۶) وہ
پانی جو بعض درختوں سے پھینکا ہے - جیسے تیم کی مستی (۷) خوشی
کی حرکتیں - (۸) غرور - تکبر - سلطنت کو پہاڑوں کی مستی کہا
جاتا ہے -

مُسْتَى اَنَا - (۱۱ - محاورہ) شہوت میں بھرا گرم ہونا -

مُسْتَى اُٹھنا - (۱۶ - محاورہ) مجامعت کو چھ چاہنا - جماع کی خواہش ہونا -

مُسْتَى لپکنا - (۱۶ - محاورہ) منی کا برس برس کر گزرتا (۲) درختوں سے بدبو دار پانی
کا پھڑکانا (۳) نشیلا پینا یا چھانا (۴) حرکات و سکنات سے جوش شہوت یا
جوش خانی کا ظاہر ہونا -

مُسْتَى جھاڑنا - (۱۶ - محاورہ) شہوت بھگانا (۲) نشہ دور کرنا - (۳)
شرارت نکالنا -

مُسْتَى جھڑنا - (۱۶ - محاورہ) نشہ ہرچ ہونا (۲) شرارت نکل جانا (۳)
اوسان درست ہوجانا -

مُسْتَى چڑھنا - (۱۶ - محاورہ) متوالا ہونا - نشہ میں ہونا - مستی میں بھڑنا -

مُسْتَى چڑھنا - (۱۶ - محاورہ) شہوت کا جوش پھولنا -

مُسْتَى چھانا - (۱۶ - محاورہ) نشہ میں ہونا - بے ہوش ہونا -

مُسْتَى کا عالم - (۱۶ - مذ) نشہ کی حالت -

مُسْتَى کرنا - (۱۶ - محاورہ) خوش نفسیال کرنا -

مُسْتَى میں آنا - (۱۶ - محاورہ) مدھ پر آنا -

مُسْتَى میں بھڑنا - (۱۶ - محاورہ) شہوت کا زور ہونا -

مُسْتَى نکالنا - (۱۶ - محاورہ) منی نکالنا (۲) شرارت دور کر دینا -

مُسْتَى لکنا - (۱۶ - محاورہ) نشہ اترنا (۲) مزاج درست ہوجانا -

مُسْتَى ہونا - (۱۶ - محاورہ) مجامعت کی خواہش ہونا -

مُسْتَى - (م - س - ت - ا - م) مدھ خاموشی - سکوت -

مُسْتَى مارنا - (۱۶ - محاورہ) سوتا بن جانا - ڈھیٹ بن کر بیٹھے رہنا -

مُسْتَى - (م - س - ت - ا - م) مذ) تعظیمی خطاب جو انگریزی میں نام سے

مُسَقَط - (مسن - قَط) (ع - ا) مذم - گرنے کی جگہ (۲) خلیج فارس کا ایک ساحلی شہر۔

مُسَقَطُ الراس - (ع - ا) مذم - پیدا ہونے کی جگہ - جانے پیدائش - مولد - وطن - زاد - یوم - جنم - نجوم۔

مُسَقَطُ کاعلوا - (۱۷- مذم) ایک قسم کا نہایت چمکدار عِلوا جو مسقط میں اڑنے کے دُور سے تیار کیا جاتا ہے۔

مُسَقَف - (مسن - قف) (ع - صف) جھٹ ڈالا گیا - پٹا لگایا - چھت دار جس پر چھت ڈالی گئی ہو۔

مُسْک - (ع - ا) مذم - مشک - کستوری۔

مُسْک - (رم - نسک) (۵-۱- مٹ) کپڑے کا ذرا سا بھارت زور پڑنے کے سبب کپڑے کا ذرا سا نکل جانا۔

مُسْک جانا - (۱۰- محارہ) کپڑے کا خفیت سا پھٹ جانا۔

مُسْک لینا - (۱- محارہ) چھین لینا - فریب سے لینا۔

مُسْکا - (رم - نسک) (۴-۱-۱- مذ) وہ چمکتا جو چو پالوں کے منہ پر ہاندا دیتے ہیں کدوہ کسی چیز پر ہاندا نہ ڈالیں۔

مُسْکا مُسْکی - (مسن - ک) (۵-۲- دانا) جھینٹا۔

مُسْککانا - (مسن - کانا) (۵- مص) کپڑے کو ایسا چھانڈا کرانے کے تارا لگ نہ ہوں (۲) لپٹنے والے کا اپنے بون کھانچا۔

مُسْککانا - (مسن - کانا) (۵- مص) ٹوٹا - چٹ چٹ ہو جانا - جیسے چوڑیاں مسکائیں۔

مُسْککاؤنا - (مسن - کاؤنا) (ق - مص) مسکرانا۔

مُسْککت - (مسن - ککت) (ع - صف) چپ کرانے والا - خاموش کرانے والا۔

مُسْکٹ - (Musket) (مسن - کٹ) (انگ - ۱- مٹ) ہندو - تفنگ۔

مُسْککانا - (مسن - ککنا) (ق - مص) مسکرانا۔

مُسْک جانا - (۵- مص) ٹوٹ جانا - ٹوٹے ہو جانا۔

مُسْکِر - (مسن - کر) (ع - ا) مٹ) نشہ پیداکرنے والی چیز - ہستی لانے والی چیز۔

مُسْکرات - (مسن - کر) - رات (ع - ا) مٹ) مسکے کی جمع - نشہ لانے والی چیز۔

مُسْکرانا - (مسن - کر) - رات (۵- مص) تبسم کرنا - ہونٹوں ہی ہونٹوں میں ہنستا۔

مُسْکر اونا - (ق - مص) مسکرانا۔

مُسْکر اُپٹ - (مسن - ک) - نا - ہٹ (۵-۱- مٹ) تبسم - ذلی ذلی ہنسی۔

مُسْکُن - (مسن - کن) (ع - ا) مذم) سکونت کی جگہ - رہنے کا مقام۔

گھر - مکان - ٹھکانا۔

مُسْکُن - (رم - نسک) (ق - ۵- مص) تسکین دینے والا - تسکین بخش۔

مُسْکنا - (رم - نسک) (۵- مص) بھٹانا کپڑے کا ذرا سا نکل جانا (۲) بات کا جواب دینا - عدھر کرنا (۳) دانا - جھینٹا (۳) اپنی جگہ سے

ہنا - جنبش کرنا۔

مُسْکَنات - (رم - نسک) - ک - نآث) (ع - صف) مسکن کی جمع - مسکنی دہائیں - تسکین بخش دہائیں۔

مُسْکَنَت - (مسن - ک) - نآث) (ع - ا) مٹ) مسکینی - سزہ سی - مفلسی (۲) عاجزی۔

مُسْکَوُط - (Mess-court) انگریزی سے اُردو بنایا ہوا - ۱۷- مذم) (ع - صف) - مشورہ (۲) - مٹ) - خفیہ سازش۔

مُسْکُوْر - (مسن - کُوْر) (۵-۱- مذم) مسوڑھا۔

مُسْکُوْرُور - (مسن - کُوْر) (۵-۱- مذم) کدرٹ کا دلچسپا جیسے ایک ہی مسکوڑے میں مزہ می نکل گئی۔

مُسْکُوْرُور لینا - (۱۷- محارہ) (مٹ) سے کدرٹ لینا - دفعتاً پہلو بدلنا۔

مُسْکُوْرُور مارنا - (۱۷- محارہ) زور کر کے ساتھ کدرٹ لینا۔

مُسْکُون - (مسن - کُون) (ع - صف) - کونک لگا ہوا - ٹھپتہ کیا ہوا - سرکاری چاب کا۔

مُسْکُون - (مسن - کُون) (ع - صف) (۱۱) سکونت کیا گیا۔ آباد (۲) رہنے کے قابل۔

مُسْکِک - (مسن - کک) (ق - ا) مذم) تازہ نکلا ہوا کئی گمی جو تیار ہوا گیا ہو (۲) اصلاح کیسی میں پارہ جو داؤں سے میسر کیا گیا ہو۔

مُسْکِک باز - (۱۷- مذم) چاب لوسی کرنے والا۔

مُسْکِک لگانا - (۲) چاب لوسی کرنا۔ بے حاشیاء کرنا (۲) بے وقوف بنانا۔

مُسْکِکِطْرِی (Musketry) (مسن - کے - ٹری) (انگ - صف) ہندو - بندوق چلانے کا علم۔

مُسْکِکین - (مسن - کیکین) (ع - صف) غریب - مفلس - لنگال - نادار (۲) عاجز - نکواں - بے چارہ (۳) علم - برد بار (۴) اصطلاح فقہ میں وہ شخص جس کے پاس اثنا مال نہ ہو کہ زکوٰۃ واجب آئے۔

مُسْکِکین ضرورت - (۷- صف) جس کی صورت پر مسکینی امداد نہ ہوتی ہو (۲) بعض اوقات اُسے کہتے ہیں جو حقیقت میں شرر مگر ظاہر میں بھولا۔

بھالا نظر آتا ہو۔

مُسْکِکین طبع - (ع - صف) غریب طبیعت - حلیم - برد بار - وہ شخص جس کی طبیعت میں شرارت نہ ہو۔

مُسْکِکِنی - (مسن - کی - نی) (ع - ا) مٹ) غریبی - مفلسی (۲) - حکم (۳) - انکسار - عاجزی - فروختی۔

مُسْکِل ڈالنا - (رم - نسک) ڈال (۵- مص) کپک ڈالنا - رومہ ڈالنا۔

مُسْکِل کر - (۱۷- تالیخ فعل) میں پساکر - کوڑھ روڑ کر۔

مُسْکِل کر کھونا - (۱۷- محارہ) آپس ڈالنا - نل ڈالنا۔

مُسْکِل - (۱۷- مٹ) مقدمے کی کارروائی کے کاغذات جو ایک جگہ منگت ہوں - نوڈیاؤ مقدمہ۔

مُسْلِ داخل دفتر کرنا - (۱۷- محارہ) مقدمہ کی کارروائی ختم ہونے کے بعد میل کا محافظ خانے میں بھیجا جانا۔

مُسْلِ مرتب کرنا - (۱۷- محارہ) مقدمے کے کاغذات ترتیب وار مرتب کرنا۔

مُسْتَلَا - (مسن، سلا، اتن) مثل کہاوت -
مُسْتَلَا - (مسن، سلا، اتن) (ع. صفت) ہتھیار بند ہتھیار لگائے ہوئے
مُسْتَلَا - (مسن، سلا، اتن) (ع. صفت) ہتھیار لگا کر لڑنے کو تیار ہونا۔ کمر بستہ ہونا۔

مُسْتَلَا - (مسن، سلا، اتن) (ع. صفت) ہتھیار لگا کر لڑنے کی جگہ۔ کیلا۔
مُسْتَلَا - (مسن، سلا، اتن) (ع. صفت) سلسلہ دار۔ گاتار۔ متواتر
 پے در پے۔

مُسْتَلَط - (مسن، سلا، اتن) (ع. صفت) مغلوب کیا گیا۔ فتح کیا گیا، مقرر کیا گیا۔
مُسْتَلَط - (مسن، سلا، اتن) (ع. صفت) تسلط کرنے والا۔ قبضہ کرنے والا۔ غالب۔ طاقت ور۔

مُسْتَلَط - (مسن، سلا، اتن) (ع. صفت) سر پر سوار ہونا (۲) چھایا ہوا (۳)۔
 قابو یافتہ ہونا۔
مُسْتَلَك - (مسن، سلا، اتن) (ع. صفت) راستہ (۲)۔ راستہ (۲)۔ طریقہ۔
 قاعدہ۔ دستور۔

مُسْتَلَم - (مسن، سلا، اتن) (ع. صفت) اسلام رکھنے والا۔ جس کا اسلام پر عقیدہ ہے۔
مُسْتَلَم - (مسن، سلا، اتن) (ع. صفت) لاپرواہ۔ کامل ثابت۔ سارا۔ سب (۲)۔ تسلیم کیا گیا۔ مانا گیا (۳)۔ درست۔ سچا۔ ٹھیک۔ سچے ٹھیک۔
 (۲) ضرور واجب۔ فرض۔

مُسْتَلَم - (مسن، سلا، اتن) (ع. صفت) جو ثبوت کا محتاج نہ ہو۔ مانا ہوا۔
مُسْتَلَم - (مسن، سلا، اتن) (ع. صفت) مسلم۔ مومن۔ دین محمدی کا پیرو
 وہ جس کا مذہب اسلام ہو۔

مُسْلِمَان - (مسن، سلا، اتن) (ع. صفت) مسلمان ہونا۔ (۱)۔ (ع. صفت) مسلمان ہونا۔ (۱)۔ مسلمان ہونا۔ (۱)۔ مسلمان ہونا۔ (۱)۔
مُسْلِمَان - (مسن، سلا، اتن) (ع. صفت) مسلمان ہونا۔ (۱)۔ مسلمان ہونا۔ (۱)۔ مسلمان ہونا۔ (۱)۔ مسلمان ہونا۔ (۱)۔
 اور اسلام کتابوں میں لکھا گیا ہے کہ مسلمانوں کے نہ ہونے پر بطور
 التمسک کہتے ہیں۔

مُسْلِمَانِي - (مسن، سلا، اتن) (ع. صفت) مسلمان عورت۔
مُسْلِمَانِي - (مسن، سلا، اتن) (ع. صفت) مسلمان سے متعلق۔ مسلمان
 سے نسبت رکھنے والا (۲)۔ (۱)۔ (ع. صفت) اسلام۔ اسلامیات (۳)۔

مُسْلِمَانِي - (مسن، سلا، اتن) (ع. صفت) مسلمان عورت۔
مُسْلِمَانِي - (مسن، سلا، اتن) (ع. صفت) مسلمان عورت۔
مُسْلِمَانِي - (مسن، سلا، اتن) (ع. صفت) مسلمان عورت۔
مُسْلِمَانِي - (مسن، سلا، اتن) (ع. صفت) مسلمان عورت۔

مُسْلِمَانِي - (مسن، سلا، اتن) (ع. صفت) مسلمان عورت۔
مُسْلِمَانِي - (مسن، سلا، اتن) (ع. صفت) مسلمان عورت۔
مُسْلِمَانِي - (مسن، سلا، اتن) (ع. صفت) مسلمان عورت۔
مُسْلِمَانِي - (مسن، سلا، اتن) (ع. صفت) مسلمان عورت۔

مُسْلِمَانِي - (مسن، سلا، اتن) (ع. صفت) مسلمان عورت۔
مُسْلِمَانِي - (مسن، سلا، اتن) (ع. صفت) مسلمان عورت۔
مُسْلِمَانِي - (مسن، سلا، اتن) (ع. صفت) مسلمان عورت۔
مُسْلِمَانِي - (مسن، سلا، اتن) (ع. صفت) مسلمان عورت۔

لیے گئے ہوں۔
مُسْلُوْب - (مسن، سلا، اتن) (ع. صفت) جس کے اس
 (ع. صفت) جس کے اس
مُسْلُوْك - (مسن، سلا، اتن) (ع. صفت) جس کے اس
 (ع. صفت) جس کے اس

مُسْلُوْك - (مسن، سلا، اتن) (ع. صفت) جس کے اس
مُسْلُوْك - (مسن، سلا، اتن) (ع. صفت) جس کے اس
مُسْلُوْك - (مسن، سلا، اتن) (ع. صفت) جس کے اس
مُسْلُوْك - (مسن، سلا، اتن) (ع. صفت) جس کے اس

مُسْلُوْك - (مسن، سلا، اتن) (ع. صفت) جس کے اس
مُسْلُوْك - (مسن، سلا، اتن) (ع. صفت) جس کے اس
مُسْلُوْك - (مسن، سلا، اتن) (ع. صفت) جس کے اس
مُسْلُوْك - (مسن، سلا، اتن) (ع. صفت) جس کے اس

مُسْلُوْك - (مسن، سلا، اتن) (ع. صفت) جس کے اس
مُسْلُوْك - (مسن، سلا، اتن) (ع. صفت) جس کے اس
مُسْلُوْك - (مسن، سلا، اتن) (ع. صفت) جس کے اس
مُسْلُوْك - (مسن، سلا، اتن) (ع. صفت) جس کے اس

مُسْلُوْك - (مسن، سلا، اتن) (ع. صفت) جس کے اس
مُسْلُوْك - (مسن، سلا، اتن) (ع. صفت) جس کے اس
مُسْلُوْك - (مسن، سلا، اتن) (ع. صفت) جس کے اس
مُسْلُوْك - (مسن، سلا، اتن) (ع. صفت) جس کے اس

مُسْلُوْك - (مسن، سلا، اتن) (ع. صفت) جس کے اس
مُسْلُوْك - (مسن، سلا، اتن) (ع. صفت) جس کے اس
مُسْلُوْك - (مسن، سلا، اتن) (ع. صفت) جس کے اس
مُسْلُوْك - (مسن، سلا، اتن) (ع. صفت) جس کے اس

مُسْلُوْك - (مسن، سلا، اتن) (ع. صفت) جس کے اس
مُسْلُوْك - (مسن، سلا، اتن) (ع. صفت) جس کے اس
مُسْلُوْك - (مسن، سلا، اتن) (ع. صفت) جس کے اس
مُسْلُوْك - (مسن، سلا، اتن) (ع. صفت) جس کے اس

مُسْلُوْك - (مسن، سلا، اتن) (ع. صفت) جس کے اس
مُسْلُوْك - (مسن، سلا، اتن) (ع. صفت) جس کے اس
مُسْلُوْك - (مسن، سلا، اتن) (ع. صفت) جس کے اس
مُسْلُوْك - (مسن، سلا، اتن) (ع. صفت) جس کے اس

مُسْلُوْك - (مسن، سلا، اتن) (ع. صفت) جس کے اس
مُسْلُوْك - (مسن، سلا، اتن) (ع. صفت) جس کے اس
مُسْلُوْك - (مسن، سلا، اتن) (ع. صفت) جس کے اس
مُسْلُوْك - (مسن، سلا، اتن) (ع. صفت) جس کے اس

مُسْلُوْك - (مسن، سلا، اتن) (ع. صفت) جس کے اس
مُسْلُوْك - (مسن، سلا، اتن) (ع. صفت) جس کے اس
مُسْلُوْك - (مسن، سلا، اتن) (ع. صفت) جس کے اس
مُسْلُوْك - (مسن، سلا، اتن) (ع. صفت) جس کے اس

مُسْلُوْك - (مسن، سلا، اتن) (ع. صفت) جس کے اس
مُسْلُوْك - (مسن، سلا، اتن) (ع. صفت) جس کے اس
مُسْلُوْك - (مسن، سلا، اتن) (ع. صفت) جس کے اس
مُسْلُوْك - (مسن، سلا، اتن) (ع. صفت) جس کے اس

مُشاقِقہ - (م- شاق- ہمت، ع- ۱- مذ) سانسے - رو برو - منذر منہ -
مُشاق - (م- شاق، ع- ۱- ص) ہمایت مشق رکھنے والا - بہت
 بہارت رکھنے والا - ماہر -
مُشاقی - (م- شاقی، ع- ۱- ص) ہمارت مشق - تجربہ -
مُشاقکل - (م- ص) ہم شکل - مانند (۲) عروض کی ایک بحر -
مُشاکلت - (م- ص) ہم شکل -
مُشام - (م- شام، ع- ۱- مذ) شام کی جمع - دماغ میں سونگھنے کی
 اُقت کی جگہ -

مُشامِ جال - (ع- ف- ۱- مذ) کناٹا دماغ -

مُشاوَرَت - (م- شاورت، ع- ۱- ص) آپس میں مل کر مشورہ
 کرنا - باہم صلاح کرنا -

مُشاہدہ - (م- شاہدہ، ع- ۱- مذ) دیکھنا - دید - معاینہ (۲) صورتوں کی
 اصطلاح میں لڑائی کا نظارہ - جمع و مشاہدات -

مُشاہدہ کرنا - (۱- محاورہ) دیکھنا - معاینہ کرنا - دیکھ کر تجربہ کرنا - تصویف کی
 اصطلاح میں لڑائی سے مشرف ہونا -

مُشاہرہ - (م- شاہرہ، ع- ۱- مذ) ماہوار - تنخواہ - طلب
 وظیفہ - جمع - مشاہرات -

مُشاہیر - (م- شاہیر، ع- ۱- مذ) مشہور کی جمع - نامور لوگ - مشہور لوگ -
مُشاہج - (م- شاج، ع- ۱- مذ) شج کی جمع - بزرگ لوگ - اکابر

مُشاہین - (م- شاہین، ع- ۱- مذ) مشاہد کی جمع (۱) چلتے والے
 (۲) وہ حکماء جو ایک دوسرے کے پاس جا کر تحصیل علم کیا کرتے
 تھے (۳) ان حکماء کا ایک گروہ جو تحقیق اشیاء کو دلائل سے
 ثابت کرتے تھے -

مُشاہیعت - (م- شاهی، ع- ۱- ص) رخصت کرنے کیلئے چند
 قدم ساتھ جانا (۲) پروردی - تعظیم -

مُشائبک - (م- شائبک، ع- ۱- ص) جالی دار - وہ شے جس میں
 سوراخ ہوں -

مُشائبہ - (م- شائبہ، ع- ۱- ص) تشبیہ دیا گیا - مثال دیا گیا - نظیر دیا گیا - وہ
 چیز جسے کسی دوسری چیز سے تشبیہ دی جائے -

مُشائبہ - (ع- ۱- ص) وہ چیز جس کے ساتھ تشبیہ دی جائے -
مُشئت - (م- شئت، ع- ۱- مذ) مگنا - گونسہ - لوگ (۲) مت (۳) مٹھن -

مُشبت - (م- شبت، ع- ۱- ص) تھوڑی چیز -

مُشبت الخوال - (م- شبت الخوال، ع- ۱- ص) اٹھی بھر پڑیاں (۲) کناٹا (۳) نہایت لاغر
 بہت ڈبلا پتلا -

مُشبت پر - (م- شبت پر، ع- ۱- ص) تھوڑے سے پر (۲) کناٹا (۳) ذرا سی جان -
 پرندوں کے لیے مستعمل ہے -

مُشبت خاک - (م- شبت خاک، ع- ۱- ص) مٹھی بھر خاک (۲) نمازا (۳) انسان جو
 خاک سے بنا ہے -

مُشبت زن - (م- شبت زن، ع- ۱- ص) مٹھے سے لڑنے والا - گونسہ باز (۲) کشتی

(۲) مرتے کو بچانا - جان بلیب بیمار کو تندرست کرنا -
مُشیعی - (م- شیعی، ع- ۱- ص) حضرت عیسیٰ سے شوب - عیسائی
 نصرانی -

مُشیتر - (م- شیتر، ع- ۱- مذ) سیر کرنے کا مقام (۲) جانا - چلنا
 سیر کرنا -

مُشیکن - (۱- محاورہ) مونچھوں کا روال نکلنا - سبزہ آغا زنا -

مُشینا - (م- شینا، ع- ۱- مذ) موٹا ناچ - عربوں کے کھانے
 کا غلہ -

م-مش

مُشاسر - (م- شاسر، ع- ۱- ص) (۱) صفت) مانند - مثل - نظیر - ہم شکل - مطابقت
 یکساں - جمع - مشاہبات -

مُشاہبت - (م- شاہبت، ع- ۱- ص) ہمت (۲) (م- ص) مطابقت - موافقت
 (۳) شکل - تشبیہ - تشبیہ -

مُشاہبت پالی جانا - (۱- محاورہ) مطابقت ہونا - موافقت ہونا
 (۲) ایک دوسرے سے ہٹنا -

مُشامت - (م- شامت، ع- ۱- ص) ایک دوسرے کو گالیاں دینا - گالی گلوچ -

مُشاجرہ - (م- شاجرہ، ع- ۱- ص) مذاہمت - مخالفت - منازعت -
مُشار - (م- شار، ع- ۱- ص) اشارہ کیا گیا - بتایا گیا -

مُشار الیہ - (ع- ۱- ص) وہ جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہو - جس کا اوپر اشارہ
 آچکا ہو - مذکورہ الصدر -

مُشارب - (م- شارب، ع- ۱- ص) (۱) مشرب کی جمع - پانی پینے کی گھٹیاں
 (۲) مذاہب - طریقے -

مُشارق - (م- شارق، ع- ۱- ص) (۱) مشرق کی جمع - طلوع ہونے
 کی جگہیں -

مُشارکت - (م- شارکت، ع- ۱- ص) (۱) ہمت - شرکت کرنا -
 حذر داری -

مُشارعے - (م- شارعے، ع- ۱- ص) مشورہ -

مُشاظلی - (م- شاطلی، ع- ۱- ص) (۱) مشاط کا کام - بنانا منوانا -
مُشاظہ - (م- شاطہ، ع- ۱- ص) (۱) مشورہ جو عورتوں کو بناؤ سنگھار
 کرانے (۲) وہ عورت جو شادی کرانے -

مُشاعرہ - (م- شاعرہ، ع- ۱- ص) (۱) شاعروں کا جمع ہو کر شعر
 خوانی کرنا -

مُشاعرہ اُکھڑ جانا - (۱- محاورہ) شعرو سخن کا جلسہ درہم برہم ہونا
مُشاعرہ پڑھنا - (۱- محاورہ) شعرو سخن میں شعر خوانی کرنا -

مُشاعرہ چمنا - (۱- محاورہ) شعرو سخن کی محفل چمنا ہونا - مشاعرہ
مُشاغل - (م- شاغل، ع- ۱- ص) (۱) مشغول کی جمع - بہت سے شغل کام

مُشَط - (م.ش. ۱-۵) چپ - خاموشی -
مُشَط مارنا - (۱۱- محاورہ) چپ رہنا۔ خاموش رہنا۔ سنی اُن کا
 کر دینا۔

مُشَط مارے جانا - (۱۱- محاورہ) چپ چاپ چلے جانا۔
مُشَط - (۱۳- صفت) شیریں۔ میٹھا۔

مُشَطان - (۱۳- صفت) (۱) منہ مٹھائی۔ لذیذ کھانا۔

مُشَطَنڈا - (م.ش. ۱- ۱۱) (۵- صفت) موٹا تازہ۔ بٹاگنا۔

مُشَطَنڈی - (م.ش. ۱- ۱۱) (۵- صفت) موٹی تازی عورت چنی کٹی۔

مُشَطَج - (۱- ۱۱) (۵- صفت) درد خوں کی تصویر بنی ہوں۔

مُشَطِخ - (۱- ۱۱) (۵- صفت) بھرا گیا۔

مُشَطِیْض - (۱- ۱۱) (۵- صفت) تشویش کیا گیا۔ تجویز کیا گیا۔

مُشَطِیْض - (۱- ۱۱) (۵- صفت) تشویش کرنے والا تجویز کرنے والا۔

مُشَطِر - (۱- ۱۱) (۵- صفت) تشدید دیا گیا۔ وہ عورت جس پر تشدید
 ہو، (۲) بانڈھا گیا۔ مضبوط کیا گیا۔

مُشَطِر - (۱- ۱۱) (۵- صفت) طلبہ گزرا۔ محلوٹ (۲) شریف۔ معزز۔ عزت
 دار۔ (۳) حکیم۔ طبیب۔ زید (۴) برہمنوں کا لقب (۵) روسی گریوالا۔

براہمن۔ پانی پلانے والا برہمن۔

مُشَطِرانی - (۱- ۱۱) (۵- صفت) مشرک کی بیوی (۲) برہمنی۔

مُشَطِر - (۱- ۱۱) (۵- صفت) پانی پینے کی جگہ چشما۔ جمیل (۲) دین

مذہب۔ ملت (۲) طور طریق۔ ڈھنگ۔ طریقہ۔

مُشَطِر - (۱- ۱۱) (۵- صفت) تشہیح کیا گیا۔ تفسیل کیا گیا۔ صاف
 مفصل۔ واضح۔

مُشَطِر - (۱- ۱۱) (۵- صفت) شرف دیا گیا۔ عزت بخشا
 گیا۔ معزز۔

مُشَطِر بہ اسلام ہونا - (۱۱- محاورہ) مسلمان ہونے کی عزت حاصل کرنا۔

دین اسلام قبول کرنا۔ دین محمدی میں داخل ہونا۔

مُشَطِر ہونا - (۱۱- محاورہ) عزت حاصل کرنا۔ اعتبار پانا (۲) کسی بزرگہ پانے

سے زیادہ معزز شخص کی ملاقات کرنا۔ ہار یا ب ہونا۔

مُشَطِر - (۱- ۱۱) (۵- صفت) بلند جگہ۔ اونچا مقام (۲) بلند ہوتے
 والا۔ اونچائی پر چڑھنے والا (۳) خبر دار۔ نگران (۴) صدر۔ محضر۔

میرفتی (۵) عزت کا بوسے دار۔

مُشَطِر - (۱- ۱۱) (۵- صفت) سوجانکلی کی سمت یا طرف

پر۔

مُشَطِر - (۱- ۱۱) (۵- صفت) مشرق سے منسوب۔ پورٹی (۲) ایشیائی
 کیونکہ ایشیا یورپ کے مشرق میں ہے۔

مُشَطِر زبان - ان ملکوں کی زبان جو یورپ کے مشرق میں واقع ہیں۔

جیسے اردو۔ عربی۔ فارسی۔ سنسکرت وغیرہ۔

مُشَطِر - (۱- ۱۱) (۵- صفت) مشرق کا تیزی مشرق و مغرب۔

لڑنے والے پہلوان (Boxer) (۱۳) جلتی لگاتے والا۔

مُشَط زہنی - (۱- ۱۱) (۵- صفت) جلتی لگانا۔ مٹھ مارنا۔

مُشَط عبارت - (۱- ۱۱) (۵- صفت) صمٹی بھردھول (۲) مردہ
 انسان کی خاک جو بدن کے گل سر جانے کے بعد ذرا سی رہ جاتی

ہے۔ مرد انسان۔

مُشَط مال - **مُشَط** مال - (۱- ۱۱) (۵- صفت) مالش جو پہلوان
 بدن کو سخت بنانے کے لیے کرتے ہیں۔ مالش جو حمام میں ہاتے

داہے کرتے ہیں۔

مُشَط - (۱- ۱۱) (۵- صفت) آرزو مند۔ شائق خواہاں۔ طالب خواہند
 (۲) منتظر۔ انتظار کرنے والا۔ جمع۔ مشاقان۔

مُشَط آہنہ - (۱- ۱۱) (۵- صفت) آہنہ کے مانند۔ آرزو مند۔

مُشَط - (۱- ۱۱) (۵- صفت) مشکوک۔ جس میں شبہ ہو۔ شبہ والا۔

مُشَط - (۱- ۱۱) (۵- صفت) پریشان۔ متزلزل۔

مُشَط - (۱- ۱۱) (۵- صفت) شریک کیا گیا۔ شریک کیا ہوا۔ وہ
 لفظ جس کے کئی معنی ہوں۔

مُشَط - (۱- ۱۱) (۵- صفت) شریک۔ شریک کرنے والا۔

مُشَط - (۱- ۱۱) (۵- صفت) شریک کیا ہوا۔ شریک کا ساتھ چکا۔

مُشَط - (۱- ۱۱) (۵- صفت) خریدار۔ مول لینے والا (۲)
 ایک ستارہ کا نام جو چمٹے آسمان پر ہے اور سعدا کہہ سمجھا جاتا ہے

(۳) کیا گدوں کی اصطلاح میں رانگ کی قلعی (۴) کھٹو کی ایک مشہور
 شاعرہ طوائف کا تخلص۔

مُشَط - (۱- ۱۱) (۵- صفت) شرط پر چیز خریدنے والا۔

مُشَط - (۱- ۱۱) (۵- صفت) ہوشیار باش۔ (۱- ۱۱) (۵- صفت) ہوشیار
 ہونے والا۔

مُشَط - (۱- ۱۱) (۵- صفت) باعث نقصان اٹھانے۔

مُشَط - (۱- ۱۱) (۵- صفت) بھڑکتا ہوا۔ شعلے مارنے والا۔

مُشَط - (۱- ۱۱) (۵- صفت) مشغول ہونے والا۔ مصروف۔

مُشَط - (۱- ۱۱) (۵- صفت) نکلا ہوا۔ وہ لفظ جو کسی دوسرے لفظ سے بنا یا
 گیا۔ بصرہ صیغہ جو مصدر سے بنا ہو۔

مُشَط - (۱- ۱۱) (۵- صفت) شامل ہونے والا۔ شامل۔ شریک۔

مُشَط - (۱- ۱۱) (۵- صفت) شہرت دیا گیا۔ مشہور کیا گیا۔

مُشَط - (۱- ۱۱) (۵- صفت) مشہور کرنا۔ شہرت دینا۔ منادی کرنا۔

مُشَط - (۱- ۱۱) (۵- صفت) شہرت دینے والا۔ اشتهار دینے
 والا۔ مشہور کرنے والا۔

مُشَط - (۱- ۱۱) (۵- صفت) خواہش کرنا۔ آرزو کرنے والا۔

اشہار پیدا کرنے والا۔ بھوک لگانے والا۔

مُشَط کہ بعد از جنگ یاد آید بر کلہ نہ خود باید زد۔ (۱- ۱۱) (۵- صفت) لڑائی کے
 بعد اگر کنگا مارنا یاد آئے تو اپنے ہی منہ پر ماننا چاہئے۔ موقع کے

بعد کوئی بات یاد آئے سے سوائے بھوتابے کے کو حاصل نہیں۔

مُشَط - (۱- ۱۱) (۵- صفت) ابرو وارے۔ (۱- ۱۱) (۵- صفت) مٹی بھر تھوڑے سے
 نمونے کے کل چرنی اصلیت معلوم ہو جاتی ہے۔

کالاسیامہ -

مشک نافہ - (فت ۱۰ - مذ ۸) ہرن کے پیٹ کی وہ تحصیل جس میں شک ہوتا ہے -

مشکل - دم بہت بگن (ع ۶ - صف ۲) شکل دیگیا محسوس -

مشکل (مشکل) - (ع ۶ - صف ۲) دشواری دشوار دشمن سخت ۲۲ پیچیدہ الجھا ہوا - (۱۷ - مذ ۳) دشواری سختی مصیبت - وقت - جمع مشکلات -

مشکل اڑنا - (۱۷ - مجاورہ ۸) مصیبت اُڑنا - یکایک کوئی دشواری پیش آجانا -

مشکل آسان ہونا - (۱۷ - مجاورہ ۸) دشواری دُور ہونا - سختی رفع ہونا مصیبت سے نجات پانا - اڑی نکلتا - عذاب سے بچھوٹنا - جان کنی سے نجات پانا جان نکلتا - دم آخر ہونا -

مشکل آنا - (۱۷ - مجاورہ ۸) دشواری پیش آنا - مصیبت آنا -

مشکل بنا پڑنا - (۱۷ - مجاورہ ۸) مصیبت پڑنا - وقت پیش آنا -

مشکل سنبھالنا - (ع ۶ - صف ۲) دشواری پسند کرنا - دہ جو نظم و نظر میں مشکل اور آذنی الفاظ استعمال کرے -

مشکل راستہ - (ع ۶ - فت ۱۰ - مذ ۸) دشوار راستہ - وہ راستہ جس پر سفر کرنے میں تکلیف ہو -

مشکل سے (۱۷ - تابع فعل ۸) وقت سے - بول توں کر کے -

مشکل سے مشکل - (۱۷ - صف ۲) بہت مشکل - کمال پیچیدہ -

مشکل سے لگانا - (۱۷ - مجاورہ ۸) مصیبت سے بچھکارا پانا -

مشکل کٹ جانا - (۱۷ - مجاورہ ۸) مصیبت دُور ہوجانا -

مشکل کر دینا - (۱۷ - مجاورہ ۸) دشوار کر دینا -

مشکل کشا - (فت ۶ - صف ۲) مشکل حل کرنے والا - مصیبت دور کرنے والا -

مشکل کشا (مشکل آسان کر دینے والا) لقب حضرت علیؑ کا -

مشکل کشا کا کھڑا ہونا - (۱۷ - مذ ۸) حضرت علیؑ کی نیاز جو مشکل دور ہوگی ابھری جاتی ہے -

مشکل کشانی کرنا - (فت ۶ - صف ۲) مشکل آسان کرنا -

مشکل کشانی کرنا - (۱۷ - مجاورہ ۸) کسی کام کو آسان کرنا -

مشکل کی بات - (۱۷ - صف ۲) وقت طلب بات - پیچیدہ معاملہ -

مشکل میں پڑنا - (۱۷ - مجاورہ ۸) آفت میں پھنسا جانا - گرفتار ہونا مصیبت میں مبتلا ہونا -

مشکل میں کام آنا - (۱۷ - مجاورہ ۸) مصیبت میں مدد دینا -

مشکل ہونا - (۱۷ - مجاورہ ۸) دُور بھرا ہونا - دشوار ہونا -

مشکلوں سے (۱۷ - تابع فعل ۸) وقت سے - دشواری سے -

مشکلے نیست کہ آسان نہ شود - مر دیا بد کہ ہر اسال نہ شود - (فت ۶ - صف ۲) کوئی ایسی مشکل نہیں ہے جو آسان نہ ہو جائے - آدمی کو نانا امید نہ ہونا چاہیے اس شعر کو مصیبت میں تسکین دینے کے واسطے استعمال کرتے ہیں -

مشکوۃ - (فت ۶ - صف ۲) ۱۰ - مذ ۸) چراغ دان - نازس (۲) حدیث

مشکوۃ کی مشہور کتاب -

مشکوۃ (فت ۶ - صف ۲) پسندیدہ (۲) مشکوٰۃ ہوا -

مشکوٰۃ - (فت ۶ - صف ۲) مشکوٰۃ - مشکوٰۃ - مشکوٰۃ - مشکوٰۃ - مشکوٰۃ -

مشکوٰۃ بنا دینا - (۱۷ - مجاورہ ۸) اس طرح کام کرنا کہ اس کے دوست پر ہونے میں تیر پڑ جائے -

مشکوٰۃ - (فت ۶ - صف ۲) مشکوٰۃ - مشکوٰۃ - مشکوٰۃ - مشکوٰۃ - مشکوٰۃ -

مشکوٰۃ (فت ۶ - صف ۲) مشکوٰۃ - مشکوٰۃ - مشکوٰۃ - مشکوٰۃ - مشکوٰۃ -

مشکوٰۃ (فت ۶ - صف ۲) مشکوٰۃ - مشکوٰۃ - مشکوٰۃ - مشکوٰۃ - مشکوٰۃ -

مشکوٰۃ (فت ۶ - صف ۲) مشکوٰۃ - مشکوٰۃ - مشکوٰۃ - مشکوٰۃ - مشکوٰۃ -

مشکوٰۃ (فت ۶ - صف ۲) مشکوٰۃ - مشکوٰۃ - مشکوٰۃ - مشکوٰۃ - مشکوٰۃ -

مشکوٰۃ (فت ۶ - صف ۲) مشکوٰۃ - مشکوٰۃ - مشکوٰۃ - مشکوٰۃ - مشکوٰۃ -

مشکوٰۃ (فت ۶ - صف ۲) مشکوٰۃ - مشکوٰۃ - مشکوٰۃ - مشکوٰۃ - مشکوٰۃ -

مشکوٰۃ (فت ۶ - صف ۲) مشکوٰۃ - مشکوٰۃ - مشکوٰۃ - مشکوٰۃ - مشکوٰۃ -

مشکوٰۃ (فت ۶ - صف ۲) مشکوٰۃ - مشکوٰۃ - مشکوٰۃ - مشکوٰۃ - مشکوٰۃ -

مشکوٰۃ (فت ۶ - صف ۲) مشکوٰۃ - مشکوٰۃ - مشکوٰۃ - مشکوٰۃ - مشکوٰۃ -

مشکوٰۃ (فت ۶ - صف ۲) مشکوٰۃ - مشکوٰۃ - مشکوٰۃ - مشکوٰۃ - مشکوٰۃ -

مشکوٰۃ (فت ۶ - صف ۲) مشکوٰۃ - مشکوٰۃ - مشکوٰۃ - مشکوٰۃ - مشکوٰۃ -

مشکوٰۃ (فت ۶ - صف ۲) مشکوٰۃ - مشکوٰۃ - مشکوٰۃ - مشکوٰۃ - مشکوٰۃ -

مشکوٰۃ (فت ۶ - صف ۲) مشکوٰۃ - مشکوٰۃ - مشکوٰۃ - مشکوٰۃ - مشکوٰۃ -

مشکوٰۃ (فت ۶ - صف ۲) مشکوٰۃ - مشکوٰۃ - مشکوٰۃ - مشکوٰۃ - مشکوٰۃ -

مشکوٰۃ (فت ۶ - صف ۲) مشکوٰۃ - مشکوٰۃ - مشکوٰۃ - مشکوٰۃ - مشکوٰۃ -

مشکوٰۃ (فت ۶ - صف ۲) مشکوٰۃ - مشکوٰۃ - مشکوٰۃ - مشکوٰۃ - مشکوٰۃ -

مشکوٰۃ (فت ۶ - صف ۲) مشکوٰۃ - مشکوٰۃ - مشکوٰۃ - مشکوٰۃ - مشکوٰۃ -

مشکوٰۃ (فت ۶ - صف ۲) مشکوٰۃ - مشکوٰۃ - مشکوٰۃ - مشکوٰۃ - مشکوٰۃ -

مشکوٰۃ (فت ۶ - صف ۲) مشکوٰۃ - مشکوٰۃ - مشکوٰۃ - مشکوٰۃ - مشکوٰۃ -

مشکوٰۃ (فت ۶ - صف ۲) مشکوٰۃ - مشکوٰۃ - مشکوٰۃ - مشکوٰۃ - مشکوٰۃ -

میں مل لاپ کرنا۔

مصالحہ۔ (ع۔ ۱۔ مذ۔ ۱۔ دیکھیے مسالا۔

مصائب۔ (م۔ صا۔ اب) (ع۔ ۱۔ مث) مصیبت کی جمع۔ تکلیفیں مضیبتیں۔ آنتیں۔ بلائیں۔

مصباح۔ (م۔ ص۔ باح) (ع۔ ۱۔ مث) چراغ۔ (۲۔ دیا۔ ۲) صبح کے وقت شرباً پینے کا پیالہ۔ جام صوچی ریح (مصباح)۔

مضطر۔ (ع۔ ۱۔ مذ۔ ۱۔ ایوا۔ مشہور لڑوی دوا۔

مضج۔ (م۔ ص۔ ج) (ع۔ ۱۔ مذ) صحت کرنے والا۔ صبح کرنے والا جمع۔ ۱۔ مصمتین۔

مصحف۔ (م۔ نص۔ ح) (ع۔ ۱۔ مذ) وہ کتاب جس میں رسالے اور صحیفے جمع ہوں۔

قرآن مجید (مجازاً) ترجمہ معشوق۔

مصحف اٹھانا۔ (۱۔ مجارہ) کلام مجید کی تم کمانا۔

مصحف بغلی۔ (۱۔ مذ) چھوٹی تطہیح کا کلام مجید۔

مصحف مجید (مقدس۔ ناطق)۔ (۱۔ مذ) قرآن شریف کلام اللہ۔

مصحفی۔ (م۔ نص۔ ح۔ نی) (ع۔ ۱۔ ص) مصحف سے نسبت دیکھنے والا، (۲۔ اردو کے مشہور شاعر غلام محمدانی ساکن امرتسر کا کنصل جو شہر و ع میں دلی چلے گئے تھے اور انہیں لکھنؤ جا کر ۱۲۴۰ھ

میں وفات پائی۔

مصحوب۔ (م۔ نص۔ ح) (ع۔ ۱۔ مذ) ساتھ کیا گیا۔ ہمراہ۔ ساتھ۔

مصدائق۔ (م۔ نص۔ دان) (ع۔ ۱۔ مذ) وہ چیز جو کسی کی صفائی ثابت کرے۔ (۲۔ مصداق۔ ثبوت صداقت (۲۔ وہ شے جس پر کوئی

مستی ہوے جا سکیں۔ جیسے جن سیرت اس کو کہتے ہیں اور اس کا مصداق آپ ہیں (۳۔ تصدیق کرنے والا۔ گواہ (۴۔ گواہی قبولت بات کی سچائی کا مجازاً ثبوت۔

مصدتر۔ (م۔ نص۔ ذ۔ ۲) (ع۔ ۱۔ مذ) صادر ہونے کی جگہ۔ نکلنے کی جگہ۔ سرچشمہ۔ جز۔ بنیاد (۲۔ مجرنا۔ مجرنا آنے کی جگہ (۳۔ اسباب

باعث (۴۔ کوئی وہ کلمہ جس سے فعل اور صیغہ خستق ہوں۔ (۵۔ اردو میں مصدر کے آخرین نا ہوتا ہے اور اس میں کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا جیسے آنانا وغیرہ۔

مصدر افضلی (وضعی)۔ (ع۔ ۱۔ مذ) وہ مصدر جسے اہل زبان نے مصدر ہی کے لیے وضع کیا، جو جیسے ہونا۔ کہنا جانا وغیرہ۔

مصدر غیر وضعی۔ وہ مصدر جن میں دوسری زبانوں کے الفاظ وطلاعت مصدری بڑھا کر مصدر بنا لیا گیا، جو جیسے دعا کرنا۔ خوش ہونا۔

آزمانا۔ ہٹ کرنا۔

مصدر لازم۔ وہ مصدر جو صرف فاعل کو چاہے جیسے دوڑنا۔ سونا۔

مصدر متعدی۔ وہ مصدر جو فاعل اور مفعول دونوں کو چاہے۔ جیسے۔ کھانا۔ لکھنا۔

مصدر رمی۔ (م۔ نص۔ ذ۔ ۲) (ع۔ ۱۔ مذ) (ص) مصدر سے منسوب (۲) اصل یا بنیاد کے متعلق۔

مصدق۔ (م۔ ص۔ ذ) (ع۔ ۱۔ ص) تصدیق کیا گیا۔ آزمائش کیا گیا تجربہ کیا گیا۔

مصدق۔ (م۔ ص۔ ذ) (ع۔ ۱۔ ص) تصدیق کرنے والا۔ سچائی کی گواہی دینے والا۔ ثابت کرنے والا۔ بیچ و مضدقین۔

مصدقہ۔ (م۔ صد۔ ذ) (ع۔ ۱۔ ص) تصدیق کیا ہوا۔ جس کی تصدیق ہوگی ہو۔ جیسے مصدقہ عدالت۔ بیچ۔ مصدقات۔

مصدق۔ (م۔ صد۔ ذ) (ع۔ ۱۔ ص) تصدیق دینے والا۔ دردِ سر پیدا کرنے والا۔

مصدور۔ مصدورہ۔ (م۔ نص۔ ذ۔ ۲) (ع۔ ۱۔ ص) مصدقہ سے صا در کیا گیا۔

مصر۔ (ع۔ ۱۔ مذ) شہر۔ بلدہ۔ نگر (۲) افریقہ کے شمال مشرق میں ایک ملک جو حضرت یوسفؑ، حضرت موسیٰؑ اور فرعونؑ کی وجہ سے مشہور ہے۔

مصر کا بازار۔ (۱۔ مذ) وہ بازار جہاں حضرت یوسفؑ کو قافلے والوں سے فروخت کیا تھا۔

مضطر۔ (م۔ نص۔ ح) (ع۔ ۱۔ ص) کسی چیز پر اڑ جانے والا۔

مضشرح۔ (م۔ نص۔ ح) (ع۔ ۱۔ ص) تفصیل کیا گیا۔

مضشرح۔ (م۔ نص۔ ح) (ع۔ ۱۔ ص) صراحت کرنے والا۔ تفصیل کرنے والا۔

مصرع۔ مصرعہ۔ (م۔ نص۔ ذ) (ع۔ ۱۔ مذ) ایک کوڑا۔ ایک پٹ (۲) آدھا شعر۔ نصف بیت۔

مصرع برجستہ۔ (ع۔ ۱۔ مذ) وہ مصرع جو بے ساختہ موزوں ہو جائے۔

مصرع پیچیدہ۔ (ع۔ ۱۔ مذ) وہ مصرع جس کا مضمون مشکل اور دقیق ہو۔

مصرع تر۔ (ع۔ ۱۔ مذ) شگفتہ اور عمدہ مصرع۔

مصرع دو لخت، ہونا۔ (۱۔ مجارہ) شعر کے دونوں مصرعوں میں ربط ہونا۔

مصرع طرح۔ (ع۔ ۱۔ مذ) وہ مصرع جو بحر اور ردیف و قافیہ بتانے کے لیے بے طور نمود کے دیا جائے۔

مصرع طرح کرنا۔ (۱۔ مجارہ) طرح کے لیے مصرع تجویز کرنا۔

مصرع قد۔ (ع۔ ۱۔ مذ) قدر کا استعارہ مصرعے کہتے ہیں۔

مصرع لڑنا۔ (۱۔ مجارہ) ایک شاعر کے مصرعے سے دوسرے شاعر کا مصرع مطالبی ہونا۔

مصرع لگانا۔ (۱۔ مجارہ) ایک مصرع پر دوسرا مصرع لگا کر شعر پورا کرنا۔

مصرف۔ (م۔ نص۔ ذ) (ع۔ ۱۔ مذ) خرچ کرنے کی جگہ خرچ کرنے کا موقع (۲) مطلب کام غرض۔ جمع، مصارف۔

مصرف۔ (م۔ نص۔ ذ) (ع۔ ۱۔ ص) صرف کرنے والا۔ خرچ کرنے والا۔

جو کسی دوسرے اسم کے ساتھ لگا جائے جیسے اجد کی کتاب لکھ
میں کتاب مضاف اور اجد مضاف (یہ ہے م) اضافہ کیا گیا۔
زیادہ کیا گیا۔

مضاف الیہ (ع۔ ۱۔ مذ) وہ اسم جس کے ساتھ کوئی دوسرا
اسم منسوب کیا جائے۔

مضافات - روم - صناعات (ع۔ ۱۔ مٹ) مضاف کی جمع متعلقہ
منوبات - ضمیر - تہمت - ۲۷ - قرب و جوار - ارد گرد - اطراف و جوارب
مفصلات - شہر کے آس پاس کے قصبے اور گاؤں۔

مضافات تہر - (ع۔ ۱۔ مٹ) شہر کے آس پاس کی آبادی
گاؤں یا قصبے۔

مضامین - (م۔ صنا۔ مین) (ع۔ ۱۔ مذ) مضمون کی جمع۔ مطالب - معانی۔
مضائق - (م۔ صنا۔ می) (ع۔ ۱۔ مذ) مٹھی - دشواری - ایک دوسرے کو
تنگ کرنا، حرج - قہاحت ۳، ڈر خوف - پروا۔

مضبوط - (مض۔ بوط) (ع۔ ۱۔ صفت) ضبط کیا گیا - قبضہ کیا گیا، پکڑا
پاتیدار - دیر با - استوار ۳، تہ زور - قوی - طاقت والا ۳، توانا
تندرست - جگمگا۔

مضبوط رہنا - (ع۔ ۱۶۔ محاورہ) مستقل رہنا - جھارہنا ثابت قدم رہنا۔
مضبوطی - (مض۔ بوطی) (ع۔ ۱۶۔ مٹ) استقلال - پایداری طاقت۔
بہمت - جرأت ۳، اطمینان - دل جمعی - تسلی۔

مضحک - (ع۔ ۱۔ مذ) ہنسی کا مقام - وہ چیز جس پر لوگ ہنسیں۔
مضحک - (مض۔ حک) (ع۔ ۱۔ صفت) ہنسانے والا۔

مضحکات - (ع۔ ۱۔ مذ) ہنسانے والی باتیں - لطیفے۔
مضحکہ - (مض۔ حک) (ع۔ ۱۔ مذ) ہنسی - ٹھٹھا - مسخر - مذاق ۲، مسخرہ ۳،
وہ شخص جس کا مذاق اڑائیں۔
مضحکہ اڑانا - (ع۔ ۱۶۔ محاورہ) ہنسانا - ٹھٹھا کرنا - ذلیل کرنا۔

مضحکہ خیز - (ع۔ ۱۔ صفت) ہنسی مذاق میں ڈالنے والی بات۔
مضطر - (مض۔ طر) (ع۔ ۱۔ صفت) جزر پہنچانے والا - نقصان رساں - جمع۔
مضرات - اردو میں بغیر تشدید یا مستعمل ہے۔

مضطر ہونا - (ع۔ ۱۶۔ محاورہ) نقصان رساں ہونا۔
مضرب - (مض۔ رب) (ع۔ ۱۶۔ مٹ) ستار بجانے کا جھلا۔
مضربت - (مض۔ رب) (ع۔ ۱۶۔ مٹ) جزر رات، ع۔ ۱۔ مذ - مٹ) نقصان
پہنچانے والی چیزیں۔

مضربت - (مض۔ رب) (ع۔ ۱۶۔ مٹ) مضرب نقصان - زیاں۔
مضربت رساں - (ع۔ ۱۶۔ صفت) نقصان پہنچانے والا زیاں کار۔
مضربت رسائی - (ع۔ ۱۶۔ مٹ) نقصان پہنچانا - تکلیف
دہی - ایذا رسانی۔

مضروب - (مض۔ رب) (ع۔ ۱۶۔ صفت) ضرب کھایا ہوا - چوٹ لگا
ہوا۔ وہ شخص جسے چوٹ آئی ہو، ۲، اصطلاح حساب میں وہ
عدد جس کو ضرب دیا جائے۔

مصیبت بن جانا - (ع۔ ۱۶۔ محاورہ) جان کا عذاب، موہانا - ڈوبھیر
ہو جانا۔

مصیبت بھرنے (بجھکنا) - (ع۔ ۱۶۔ محاورہ) تکلیف اٹھانا، دکھ جھیلنا۔
مصیبت بڑھنا - (ع۔ ۱۶۔ محاورہ) آفت آنا - بپا بڑھنا۔
مصیبت پینا - (ع۔ ۱۶۔ محاورہ) دکھ سہوگا - تکلیف اٹھانا۔

مصیبت چھیلنا - (ع۔ ۱۶۔ محاورہ) سختی برداشت کرنا - دکھ سہنا۔
مصیبت دیکھنا - (ع۔ ۱۶۔ محاورہ) مصیبت پیش آنا - تکلیف سہنا۔
مصیبت زدہ - (ع۔ ۱۶۔ صفت) مصیبت کا مارا ہوا - بد قسمت - تباہ
خستہ حال - خراب دستہ۔

مصیبت سے جان چھوٹنا - (ع۔ ۱۶۔ محاورہ) تکلیف سے نجات پانا۔
مصیبت کا ہاتھ - (ع۔ ۱۶۔ مذ) بڑی مصیبت۔
مصیبت کاٹنا - (ع۔ ۱۶۔ محاورہ) مصیبت برداشت کرنا۔

مصیبت کٹ جانا - (ع۔ ۱۶۔ محاورہ) دکھ کا زمانہ بسر ہو جانا۔
مصیبت کدہ - (ع۔ ۱۶۔ مٹ) مصیبت کا گھر - تکلیف کا مقام۔
مصیبت کے دن ٹالنا - (ع۔ ۱۶۔ محاورہ) دکھ کی مدت بسر کرنا۔
مصیبت کے دن کاٹنا - (ع۔ ۱۶۔ محاورہ) تکلیف کا زمانہ بسر کرنا۔

مصیبت مارا - (ع۔ ۱۶۔ صفت) آفت زدہ۔
مصیبت ٹول لینا - (ع۔ ۱۶۔ محاورہ) خواہ خواہ کوئی بھگڑا اپنے
ذمے سے لینا۔

مصیبت میں بڑھنا - (ع۔ ۱۶۔ محاورہ) آفت یا جھگڑے میں مبتلا ہونا۔
مصیبت تاک - (ع۔ ۱۶۔ صفت) مصیبت میں مبتلا کرنے والا۔
مصیبت ناگہانی - وہ صدمہ یا حادثہ جو اچانک پیش آجائے
مضیقن - (ع۔ ۱۶۔ صفت) روشن کیا گیا - رنگ دغیر سے صاف
کیا گیا۔

م - ض

مضار - (مض۔ ر) (ع۔ ۱۶۔ مٹ) مفرت کی جمع - نقصانات۔
مضاربت - (ع۔ ۱۶۔ مٹ) تفریق میں شریک بنا کر کسی کو تجارت کے
لیے مال دینا، ۲، تلوار مارنا - لڑائی - جھگڑ۔

مضارع - (مض۔ ر) (ع۔ ۱۶۔ مذ) مشابہ - مانند ۲، اصطلاح
قواعد زبان میں وہ فعل جس میں حال اور مستقبل دونوں
زمانے پائے جائیں۔

مضارع - (مض۔ ر) (ع۔ ۱۶۔ صفت) دگنا - دونا - دو چند۔
۱۲، اصطلاح علم صرف میں وہ کلمہ جس کے آخر میں ایک جنس
کے دو حرف آئیں۔

مضارف - (مض۔ ر) (ع۔ ۱۶۔ صفت) جڑا ہوا - ملا ہوا - پورستہ - نسی
کیا ہوا، منسلک - شامل من منسوب - متعلق ۳، علم نہیں وہ کم

مضروب فیہ - (ع. صفت) وہ عدد جس سے ضرب دی جائے۔
 مضطر - (مضی، ظر) (ع. صفت) حرر رسیدہ - تکلیف میں مبتلا
 کرنا۔ مجازاً بے بس۔ بے اختیار (۲) بے تاب۔ بے قرار۔ بے چین

پریشان - آزرہ۔
 مضطرب - (مضی، طرب) (ع. صفت) بے چین۔ بے قرار۔
 مضطرب الحال - (ع. صفت) پریشان حال۔ کھرا یا بوا۔
 مضطربانہ - (مضی، طرب) (ع. صفت) بے تاب۔ بے قرار۔
 بے چینی کی حالت سے۔
 مضطرب - (مضی، ع) (ع. صفت) ضعیف کرنے والا۔

کم زور بنانے والا۔
 مضطرب - (مضی، ع) (ع. صفت) لوتھڑا۔ گوشت کا ٹکڑا (۲) وہ جنین
 جس میں ابھی جان نہ پڑی ہو، لقمہ لڑا۔
 مضطرب گوشت - (ع. صفت) گوشت کا لوتھڑا (۲) لقمہ

اور بے کار آدمی۔
 مضطرب - (مضی، ع) (ع. صفت) مگر کرنے والا۔ ہسکانے والا۔
 مضطرب - (ع. صفت) گمراہی۔

مضمار - (مضی، مار) (ع. صفت) میداں - ہموار اور وسیع میداں۔
 (۲) میداں جنگ۔ وہ جگہ جہاں گھوڑا دوڑاتے ہیں۔ جمع، مضامیر۔
 مضطرب - (مضی، ع) (ع. صفت) موم بھونے والا۔ گم بھونے والا۔
 (۲) گم زور۔ ڈبلا پتلا۔ نالواں۔ لاف (۳) اداس۔ دلگیر۔ رنجیدہ۔ مغموم۔
 مضطرب ہونا - (۱) محاورہ (۲) نہ حال ہو جانا۔

مضمر - (مضی، ع) (ع. صفت) پوشیدہ۔ مخفی۔ دل میں رکھا گیا۔
 مضطرب - (مضی، ع) (ع. صفت) گمراہی۔ گمراہی۔ گمراہی۔
 مضطرب - (مضی، ع) (ع. صفت) گمراہی۔ گمراہی۔ گمراہی۔
 مضطرب - (مضی، ع) (ع. صفت) گمراہی۔ گمراہی۔ گمراہی۔

مضمون - (مضی، مون) (ع. صفت) (۱) مذم ضمن میں کیا ہوا۔ درمیان میں
 ڈالی ہوئی چیز (۲) مطلب - معنی - بیان (۳) جواب مضمون - انشا
 ادارہ (۴) بات - سخن۔

مضمون آفرین - (ع. صفت) نئی بات پیدا کرنے والا۔
 مضمون آفرینی - (ع. صفت) (۱) مذم ذہن سے نئی بات نکالنا۔
 مضمون باندھنا - (۱) محاورہ (۲) کسی مضمون کو شعر میں نظر کرنا۔
 مضمون بٹھانا - (۱) محاورہ (۲) مضمون کو عبارت میں ٹھیک
 موع پر جگہ دینا۔

مضمون بندھنا - (۱) محاورہ (۲) مضمون نشر یا نظم میں آجانا۔
 مضمون بست ہونا - (۱) محاورہ (۲) مطلب گھٹنا ہونا۔
 مضمون بستہ - (۱) محاورہ (۲) مضمون ظاہر ہونا۔
 مضمون کھرا ہونا - (۱) محاورہ (۲) دوسرے کے مضمون کو اپنے نام
 پر چھان کرنا۔
 مضمون ڈھل جانا - (۱) محاورہ (۲) مضمون کا اچھی عبارت میں

لکھا جانا۔
 مضمون روشن ہونا - (۱) محاورہ (۲) مضمون صاف ہونا۔
 مضمون سست ہونا - (۱) محاورہ (۲) مضمون بے لطف
 اور بے مزہ ہونا۔

مضمون سنبھالنا - (۱) محاورہ (۲) بات کی پیچیدگی جاتی رہنا۔
 مضمون سونجھنا - (۱) محاورہ (۲) مضمون خیال میں آنا۔
 مضمون کھینا - (۱) محاورہ (۲) مضمون صادق آجانا۔
 مضمون کی بندش - (۱) مذم (۲) مضمون کی بناوٹ۔
 مضمون کا سنبھالنا - (۱) محاورہ (۲) مطلب حاصل کرنا۔

مضمون کڑھنا - (۱) محاورہ (۲) تہمت لگانا۔
 مضمون لڑنا - (۱) محاورہ (۲) مضمون کا سبب نشا سونجھنا (۲) کسی کے
 مضمون سے مضمون کا مطابق ہونا۔
 مضمون متبادل ہونا - (۱) محاورہ (۲) مضمون کا اپنے مقام سے
 گمراہ ہونا۔

مضمون نکالنا - (۱) محاورہ (۲) مقصد سمجھنا۔ تہ کی بات نکالنا۔
 مضمون نگار (نویس) - (ع. صفت) مضمون لکھنے والا

انشاہ داند۔
 مضمون نگاری (نویسی) - (ع. صفت) مضمون لکھنا۔
 مضمون واحد ہونا - (۱) محاورہ (۲) مطلب ایک ہونا۔ ایک طرف میں
 دو مضمون کا شامل ہونا۔
 مضمون ہاتھ (آٹا) لگنا - (۱) محاورہ (۲) نئی بات کا خیال میں آنا۔

مضمون سونجھنا۔
 مضی - (مضی، ع) (ع. صفت) گمراہی۔ گمراہی۔ گمراہی۔
 مضی - (مضی، ع) (ع. صفت) گمراہی۔ گمراہی۔ گمراہی۔

م - ط

مطابح - (ع. صفت) (۱) مذم مطبخ کی جمع - باورچی خانے۔
 مطابح - (ع. صفت) (۲) مذم مطبخ کی جمع - چھاپے خانے۔
 مطابحی - (ع. صفت) (۱) مطابق - برابر - یکساں - مانند (۲)
 یہ موجب - حسب - مناسب - بہ لحاظ۔
 مطابقت - (ع. صفت) (۱) مذم موافقت - مشابہت
 برابری۔

مطابحہ - (ع. صفت) (۱) مذم اڑنے کی جگہ - بزوانی اڑہ۔
 مطابحہ - (ع. صفت) (۲) مذم طابحہ - مشورہ۔
 مطابحہ - (ع. صفت) (۳) مذم طابحہ - سردار بزرگ بزرگی
 وہ شخص جس کی اطاعت کی جائے۔
 مطابحہ - (ع. صفت) (۴) مذم مطابحہ - معنی عیب - طعن۔
 مطابحہ - (ع. صفت) (۵) مذم مطابحہ - طواف کی جگہ۔

نکالنے کے لیے ادنیٰ کی بھی خوشامد کہتے ہیں۔
مطلب نکالنا - (۱۶۔ محاورہ) بات سمجھنا۔ غرض پوری کرنا۔ غرض حاصل کرنا۔
مطلب ہو جانا - (۱۷۔ محاورہ) کام بن جانا۔ کامیاب ہو جانا۔
مطلبی - خواہش پوری ہونا۔
مطلبی۔ مطلبیہ - (مط۔ ل۔ بی۔ ل۔ مط۔ ل۔ بی۔ ل۔ ا) (ارد۔ صفت) خود غرض۔ ابن الوقت۔
مطلع - (مط۔ ل۔ غ۔ ج۔ ا۔ نذ۔ ا) طلوع ہونے کی جگہ۔ مشرق۔ پورب فضا (۱۲) غزل یا قصیدے کے شروع کا شعر جس کے دونوں مصرعوں میں قافیے ہوں۔
مطلع صاف ہونا - (۱۷۔ محاورہ) آسمان کا اردغبار سے صاف ہونا (۲۱) کسی جگہ ایک آدمی بھی نہ ہونا، دشتوں سے مقام خالی ہونا روک لوگ نہ ہونا (کنایتاً) واضحی مونیچہ کا نہ ہونا۔ ابھی سبزہ لگنا نہ ہونا۔
مطلع صبح - (۶۔ ف۔ ا۔ صفت) اتنی کا وہ مقام جہاں صبح کی روشنی پہلے پہل ظاہر ہوتی ہے۔
مطلع - (مط۔ ط۔ ل۔ غ۔ ج۔ ا) اطلاع دیا گیا۔ خبردار کیا۔
مطلع کرنا - (۱۶۔ محاورہ) اطلاع دینا۔ خبردار کرنا۔ آگاہ کرنا۔
مطلق - (مط۔ ق۔ ا۔ صفت) آزاد۔ بے قید (۲) بالکل قطعی جیسے آزاد مطلق (۱۳) قرآن شریف کی وہ آیت جہاں پھرنا چاہیے۔
مطلق الریجلیں - وہ گھوڑا جس کے پاؤں کا رنگ بدن کے رنگ سے مختلف ہو۔
مطلق العنان - (۱۶۔ صفت) بے لگام۔ جس کی لگام چھوٹ گئی ہو (۲) آزاد۔ خود سر۔ بے باک۔
مطلق الیدین - (۱۶۔ صفت) وہ گھوڑا جس کے اگلے دونوں **مطلق الیسار** - (۱۶۔ صفت) وہ گھوڑا جس کے دونوں پچھلے پاؤں سفید ہوں۔
مطلق الیمین - وہ گھوڑا جس کے دونوں دائیں پاؤں سفید ہوں۔
مطلقاً - (مط۔ ل۔ غ۔ ج۔ ا) بالکل قطعی۔ اصلاً۔
مطلقاً - (مط۔ ل۔ ق۔ ا۔ صفت) طلاق دی ہوئی عورت۔ وہ عورت جسے خاندان سے چھوڑ دیا ہو۔
مطلوب - (مط۔ لوب۔ ل۔ ا۔ صفت) طلب کیا گیا۔ مانگا گیا خواہش کیا گیا۔ کنایتاً معشوق۔
مطلوب - (مط۔ ح۔ ج۔ ا۔ نذ۔ ا) نظر پڑنے کی جگہ (۲) مقصود (۲) مطامح۔
مطلوب نظر - (۱۶۔ نذ۔ ا۔ صفت) مرکز نگاہ۔ مقصد اصلی۔
مطلوبن - (مط۔ لوب۔ ل۔ ان۔ ا۔ صفت) المیٹان پانے والا۔ خاطر جمع رکھنے والا۔ بے فکر۔ آسودہ۔

مضطرب - (۱۶۔ صفت) وہ مسلمان جسے جہاد سے مشتغلی کر دیا گیا ہو۔
مضطرب - (۱۶۔ صفت) وہ اپنی خوشی سے جہاد کرے (۲) مضارب۔
مضطرب - (۱۶۔ صفت) طواف کرنے والا۔
مضطرب - (مط۔ لوب۔ ل۔ ا۔ صفت) طوق بڑا بھاری کیا گیا۔
مضطرب - (مط۔ لوب۔ ل۔ ا۔ صفت) لمبا۔ دراز۔ طویل۔
مضطرب - (مط۔ لوب۔ ل۔ ا۔ صفت) پاک۔ صاف۔ میرا۔ معصوم۔
مضطرب - (مط۔ لوب۔ ل۔ ا۔ صفت) پاک کرنے والا۔
مضطربات - (مط۔ لوب۔ ل۔ ا۔ صفت) رات (۱۶۔ صفت) مضربہ کی جمع جیسے انداز مضربات۔
مضطربہ - (مط۔ لوب۔ ل۔ ا۔ صفت) پاک ہونے کا آلہ۔ جھانگلی۔ آکٹابہ وغیرہ کرنے کا آلہ (۲) غسل خانہ۔
مضطرب - (مط۔ لوب۔ ل۔ ا۔ صفت) خوشبودار۔ خوشبودار دینے والا۔ خوشبودار معطر (۲) پاک ہونے والا۔
مضطرب - (مط۔ لوب۔ ل۔ ا۔ صفت) برستے والا۔ بارش کرنے والا۔
مضطرب - (مط۔ لوب۔ ل۔ ا۔ صفت) اطاعت کرنے والا۔ فرماں بردار۔ تابع۔ حکم بردار۔ ماتحت۔
مضطرب کرنا - (۱۶۔ صفت) فرماں بردار بنانا۔ زیر کرنا۔ ماتحت بنانا۔ مغلوب کرنا۔

م۔ ظ

مظاہر - (مظ۔ ظ۔ لیم۔ ا۔ نذ۔ ا) مظاہر کی جمع۔ ظلم۔ ستم۔ سختیاں کے الصافیان۔
مظاہر - (مظ۔ ظ۔ لیم۔ ا۔ نذ۔ ا) مظاہر کی جمع۔ ظاہر ہونے کی جگہیں۔
مظاہر - (مظ۔ ظ۔ لیم۔ ا۔ نذ۔ ا) مظاہر کرنے والا۔ بھگت۔ مظاہرین۔
مظاہرہ - (مظ۔ ظ۔ لیم۔ ا۔ نذ۔ ا) مدد دینا۔ کسی خاص امر میں اظہار تائید کے لیے جمع ہونا۔ مجمع کر کے گشت کرنا۔ کسی بات کی موافقت یا مخالفت کے لیے جوش و جذبہ بات کا اظہار (۱۳) اظہار غاشق (۱) تک،
مظاہر - (مظ۔ ظ۔ لیم۔ ا۔ نذ۔ ا) برتن میں رکھی ہوئی چیز۔
مظاہر - (مظ۔ ظ۔ لیم۔ ا۔ نذ۔ ا) صفت) اظہار یا منصور فتح یا با فتح مند۔
مظاہر - (مظ۔ ظ۔ لیم۔ ا۔ نذ۔ ا) صفت) آندیک سبب (۲) پوٹیدہ۔
مظاہر - (مظ۔ ظ۔ لیم۔ ا۔ نذ۔ ا) صفت) ظلم۔ ستم۔ جور۔ جفا۔ اندھیرے الصافیان۔
مظاہر - (مظ۔ ظ۔ لیم۔ ا۔ نذ۔ ا) صفت) مظاہر۔
مظاہر - (مظ۔ ظ۔ لیم۔ ا۔ نذ۔ ا) صفت) ظلم کی گناہ۔ ستم رسیدہ۔ ستایا ہوا۔
مظاہر - (مظ۔ ظ۔ لیم۔ ا۔ نذ۔ ا) صفت) مظاہر ہونا۔ مظالم ہونے کی حالت (۲) ظلم۔ جور۔
مظاہریت - (مظ۔ ظ۔ لیم۔ ا۔ نذ۔ ا) صفت) مظاہریت۔ مظالم رسیدہ ہونے کی حالت۔

مظنون - (ع. مظن - ظن) (ع. مظن کیا گیا۔ مشتقہ مشکوک۔
مظننہ - (ع. مظن - ظن) (ع. مظن کیا گیا۔ مشتقہ مشکوک۔
مظنہ - (ع. مظن - ظن) (ع. مظن کیا گیا۔ مشتقہ مشکوک۔
مظنہ - (ع. مظن - ظن) (ع. مظن کیا گیا۔ مشتقہ مشکوک۔
مظنہ - (ع. مظن - ظن) (ع. مظن کیا گیا۔ مشتقہ مشکوک۔

معارضہ - (ع. معارض - معارض) (ع. معارض کیا گیا۔ مشتقہ مشکوک۔
معارض - (ع. معارض - معارض) (ع. معارض کیا گیا۔ مشتقہ مشکوک۔
معارض - (ع. معارض - معارض) (ع. معارض کیا گیا۔ مشتقہ مشکوک۔
معارض - (ع. معارض - معارض) (ع. معارض کیا گیا۔ مشتقہ مشکوک۔
معارض - (ع. معارض - معارض) (ع. معارض کیا گیا۔ مشتقہ مشکوک۔

م - ع

مع - (ع. تابع فعل) (ع. مع کیا گیا۔ مشتقہ مشکوک۔
مع - (ع. تابع فعل) (ع. مع کیا گیا۔ مشتقہ مشکوک۔
مع - (ع. تابع فعل) (ع. مع کیا گیا۔ مشتقہ مشکوک۔
مع - (ع. تابع فعل) (ع. مع کیا گیا۔ مشتقہ مشکوک۔
مع - (ع. تابع فعل) (ع. مع کیا گیا۔ مشتقہ مشکوک۔

معاش - (ع. معاش - معاش) (ع. معاش کیا گیا۔ مشتقہ مشکوک۔
معاش - (ع. معاش - معاش) (ع. معاش کیا گیا۔ مشتقہ مشکوک۔
معاش - (ع. معاش - معاش) (ع. معاش کیا گیا۔ مشتقہ مشکوک۔
معاش - (ع. معاش - معاش) (ع. معاش کیا گیا۔ مشتقہ مشکوک۔
معاش - (ع. معاش - معاش) (ع. معاش کیا گیا۔ مشتقہ مشکوک۔

لیے بلا لگان عطا کی جائے۔

معافی دار - (ع. معف) عطا کی ہوئی زمین کا مالک۔
معافی مانگنا - (۱۶. محاورہ) قصور سے درگزر کرنے کی درخواست

کرنا۔ غدر مندرت کرنا

معافی نامہ - (ع. ف. ۱-۱. مذ) معافی کی درخواست۔ معافی کی تحریر۔

معاقتبت - (ر.م. عاق. بیت، ع. ۱-۱۰. مٹ) سزا۔ ڈنڈ۔ سیاست۔
(یہ عقوبت۔ عذاب۔

معاقد - (ر.م. عا. قند) (ع. ۱-۱. مذ) عقد کرنے والا۔ نکاح کرنے والا۔
عہد بانہ حصہ والا۔

معالج - (ر.م. مار. ل. ج) (ع. ۱-۱. مذ) علاج کرنے والا۔ حکیم۔ طبیب۔ دید۔
ڈاکٹر۔ جیب، معالجین۔

معالجات - (ر.م. عا. ل. جات) (ع. ۱-۱. مذ) معالجہ کی جمع۔
دوا درمن۔ علاج۔

معالجہ - (ر.م. عا. ل. ج) (ع. ۱-۱. مذ) علاج۔ دوا دارو۔
معالجہ - (ع. ۱-۱. مذ) معلم کی جمع۔ تفتیشیاں۔ ملاحتیں۔ دیکھیے معلم۔

معافی - (ر.م. عا. ل. ج) (ع. ۱-۱. مذ) معافی کی جمع۔ آدھیاں۔ بلندیاں۔
معاملات - (ر.م. عا. م. لات) (ع. ۱-۱. مذ) معاملہ کی جمع۔ امور۔ کاروبار۔

معاملات عدلی - (۱۶. مذ) سلطنت کے کام۔ کاروبار حکومت میاںسی امور۔
معاملت - (ر.م. عا. م. لٹ) (ع. ۱-۱. مذ) لین دین۔ یوبار۔ کاروبار (۲) کوئی
بات (۳) باہم کوئی فیصلہ کرنا۔ قول و قرار۔

معاملہ - (ر.م. عا. م. لٹ) (ع. ۱-۱. مذ) عمل۔ کام۔ کاج۔ کاروبار۔ دھندا
باہم بل کوئی کام کرنا (۲) لین دین۔ خرید و فروخت۔ بیچ۔ یوبار
(۳) واقعہ۔ وہ بات جو عمل میں آئے (۴) قول و قرار (۵) بات جھگڑا

قضیہ (۶) خاص بات۔ تعلق۔ واسطہ۔ سابقہ۔ برتاؤ۔ جمع، معاملات
نہ حاصل۔ مال گزارہ۔ لگان۔

معاملہ ادا کرنا - (۱۶. محاورہ) مال گزارہ دینا۔
معاملہ باندھنا - (۱۶. محاورہ) ان باتوں کو نظم کرنا جو خیالی نہ ہوں بلکہ
عمل میں آتی ہوں۔

معاملہ بندھی - (ع. ۱-۱. مذ) لین دین کوئی باتوں کو نظم کرنا۔
معاملہ بن جانا - (۱۶. محاورہ) مقصد حاصل ہو جانا۔ کام درست
ہو جانا۔

معاملہ بنتا - (۱۶. محاورہ) کام بننا۔ کام درست ہونا۔ بات چیت
ہونا (۲) معاشرت ہونا۔

معاملہ پڑنا - (۱۶. محاورہ) کام پڑنا۔ تعلق پڑنا۔ واسطہ ہونا
معاملہ چمکا کرنا - (۱۶. محاورہ) بات طے ہونا۔ قطعی فیصلہ ہونا۔
سودا بیختہ ہونا۔

معاملہ پیش کرنا - (۱۶. محاورہ) فیصلہ کے لیے کسی کے پاس
معاصلے جانے۔

معاملہ (دان) شناس - (ع. ۱-۱. مذ) فہم۔ تجربہ کار۔

بات کی تہہ کو سینچنے والا۔

معاملہ (دانی) رسی - (معاملہ شناسی) فہمی۔ (ع. ۱-۱. مذ) رسی۔
رہات کی تہہ پھینچنا۔ کاروبار سے واقفیت۔

معاملہ سنگین - (ع. ۱-۱. مذ) اہم بات۔ سخت معاملہ۔

معاملہ کا کھوٹا - (۱۰. مذ) یہ ایمان۔ دغا باز۔ خائن۔

معاملہ کرنا - (۱۶. محاورہ) بات چیت کرنا۔ کسی امر کی نسبت طے کرنا (۲) لین
دین کرنا۔ سودا کرنا۔ خرید و فروخت کرنا (۳) فیصلہ کرنا (۴) عہد و پیمانہ
کرنا۔ بل چل کر کام کرنا۔

معاملہ کھٹائی میں پڑ جانا - (۱۶. محاورہ) بات طے ہونے میں دیر
ہو جانا۔

معاملہ ہونا - (۱۶. محاورہ) کام ٹھیک ہونا۔ بات چیت ہونا۔
کام بنتا۔ کارروائی ہونا (۲) سودا طے ہونا۔ بھاؤ چھینا (۳)

فیصلہ ہونا۔
معالے کا (سٹیا) گھرا - (۱۶. معف) لین دین میں ایمان دار۔ بات کا
پورا۔ روایت دار۔

معاقد - (ر.م. عا. قند) (ع. ۱-۱. مذ) عداوت کرنے والا۔ دشمن۔ مخالف۔
عدو۔ جمع، معاقدین۔

معاقدانہ - (ع. ۱-۱. صفت) دشمنوں کی طرح۔
معاقدت - (ر.م. عا. ل. قوت) (ع. ۱-۱. مذ) دشمنی۔ عداوت
چھکڑا۔ ٹٹٹا۔

معاقد - (ع. ۱-۱. صفت) بغل گیر ہونے والا۔ گلے ملنے والا۔
معاقدہ - (ر.م. عا. ل. قند) (ع. ۱-۱. مذ) بغل گیر ہونا۔ گلے ملنا۔

معافی - (ر.م. عا. ل. ج) (ع. ۱-۱. مذ) معافی کی جمع۔ مطالب۔ مقاصد۔
مراہی (۲) وہ علم جس سے الفاظ کا صحیح موقع استعمال اور معنوں کا
درست و موزوں ہونا معلوم ہوتا ہے۔

معاودت - (ر.م. عا. و. قوت) (ع. ۱-۱. مذ) واپسی۔ واپس آنا۔
لٹنا۔ پھر آنا۔

معاوضت - (ر.م. عا. و. قند) (ع. ۱-۱. مذ) بدلہ۔ پٹا۔ تادان۔
معاوضہ - (ر.م. عا. و. قند) (ع. ۱-۱. مذ) بدلہ۔ پٹا۔ عوض (۲) ر
آہرت۔ حق خدمت۔

معاوضہ دلانا - (۱۶. محاورہ) عوض دلانا۔ تادان ادا کرنا۔ مہرج
دلانا۔

معاون - (ر.م. عا. و. قند) (ع. ۱-۱. مذ) اعانت کرنے والا۔ مددگار۔ دست
گیر۔ حمایتی۔ جمع، معاوین۔

معاون حرم - (ع. ۱-۱. صفت) حرم میں شریک۔ مہرم کی مدد کرنا۔
معاونت - (ر.م. عا. و. قند) (ع. ۱-۱. مذ) مدد۔ حمایت۔ امداد۔
سہارا۔ تائید۔

معاقد - (ر.م. عا. بد) (ع. ۱-۱. مذ) عہد و پیمانہ کرنے والا۔ قول و قرار
کرنے والا۔

معاقدہ - (ر.م. عا. و. قند) (ع. ۱-۱. مذ) باہم قول و قرار۔ عہد نامہ۔

اس لیے ”وحی“ کے بغیر ہی اہل عقل و حکمت کو حید پر ایمان لا سکتے ہیں۔ یہ لوگ اللہ کو منزہ صفات خیال کرتے تھے۔ یعنی خدا میں متضاد صفات نہیں ہو سکتیں۔ مامول رشید کے دور میں برسرِ کار مذہب بن گیا تھا۔

معتزلی - (مذہب - مذہبی، (ع-۱) مذہب) فرقہ معتزلہ کا پیرو۔

معتزلی - (مذہب - مذہبی، (ع-۱) مذہب) فرقہ معتزلہ کا پیرو۔

معتزلہ - (مذہب - مذہبی، (ع-۱) مذہب) فرقہ معتزلہ کا پیرو۔

معتزلہ - (مذہب - مذہبی، (ع-۱) مذہب) فرقہ معتزلہ کا پیرو۔

معتزلہ - (مذہب - مذہبی، (ع-۱) مذہب) فرقہ معتزلہ کا پیرو۔

معتزلہ - (مذہب - مذہبی، (ع-۱) مذہب) فرقہ معتزلہ کا پیرو۔

معتزلہ - (مذہب - مذہبی، (ع-۱) مذہب) فرقہ معتزلہ کا پیرو۔

معتزلہ - (مذہب - مذہبی، (ع-۱) مذہب) فرقہ معتزلہ کا پیرو۔

معتزلہ - (مذہب - مذہبی، (ع-۱) مذہب) فرقہ معتزلہ کا پیرو۔

معتزلہ - (مذہب - مذہبی، (ع-۱) مذہب) فرقہ معتزلہ کا پیرو۔

معتزلہ - (مذہب - مذہبی، (ع-۱) مذہب) فرقہ معتزلہ کا پیرو۔

معتزلہ - (مذہب - مذہبی، (ع-۱) مذہب) فرقہ معتزلہ کا پیرو۔

معتزلہ - (مذہب - مذہبی، (ع-۱) مذہب) فرقہ معتزلہ کا پیرو۔

معتزلہ - (مذہب - مذہبی، (ع-۱) مذہب) فرقہ معتزلہ کا پیرو۔

معتزلہ - (مذہب - مذہبی، (ع-۱) مذہب) فرقہ معتزلہ کا پیرو۔

معتزلہ - (مذہب - مذہبی، (ع-۱) مذہب) فرقہ معتزلہ کا پیرو۔

معتزلہ - (مذہب - مذہبی، (ع-۱) مذہب) فرقہ معتزلہ کا پیرو۔

معتزلہ - (مذہب - مذہبی، (ع-۱) مذہب) فرقہ معتزلہ کا پیرو۔

معتزلہ - (مذہب - مذہبی، (ع-۱) مذہب) فرقہ معتزلہ کا پیرو۔

معتزلہ - (مذہب - مذہبی، (ع-۱) مذہب) فرقہ معتزلہ کا پیرو۔

معاہدہ ساقط النفاذ - (ع-۱) مذہب) ناچاہتا قرار نامہ - وہ معاہدہ جو جاری نہ ہو سکے۔

معاہدہ مکن الانساح - (ع-۱) مذہب) ٹوٹ سکنے والا معاہدہ۔

معاہدہ - (ع-۱) مذہب) ٹوٹ سکنے والا معاہدہ۔

معاہدہ - (ع-۱) مذہب) ٹوٹ سکنے والا معاہدہ۔

معاہدہ - (ع-۱) مذہب) ٹوٹ سکنے والا معاہدہ۔

معاہدہ - (ع-۱) مذہب) ٹوٹ سکنے والا معاہدہ۔

معاہدہ - (ع-۱) مذہب) ٹوٹ سکنے والا معاہدہ۔

معاہدہ - (ع-۱) مذہب) ٹوٹ سکنے والا معاہدہ۔

معاہدہ - (ع-۱) مذہب) ٹوٹ سکنے والا معاہدہ۔

معاہدہ - (ع-۱) مذہب) ٹوٹ سکنے والا معاہدہ۔

معاہدہ - (ع-۱) مذہب) ٹوٹ سکنے والا معاہدہ۔

معاہدہ - (ع-۱) مذہب) ٹوٹ سکنے والا معاہدہ۔

معاہدہ - (ع-۱) مذہب) ٹوٹ سکنے والا معاہدہ۔

معاہدہ - (ع-۱) مذہب) ٹوٹ سکنے والا معاہدہ۔

معاہدہ - (ع-۱) مذہب) ٹوٹ سکنے والا معاہدہ۔

معاہدہ - (ع-۱) مذہب) ٹوٹ سکنے والا معاہدہ۔

معاہدہ - (ع-۱) مذہب) ٹوٹ سکنے والا معاہدہ۔

معاہدہ - (ع-۱) مذہب) ٹوٹ سکنے والا معاہدہ۔

معاہدہ - (ع-۱) مذہب) ٹوٹ سکنے والا معاہدہ۔

معاہدہ - (ع-۱) مذہب) ٹوٹ سکنے والا معاہدہ۔

معاہدہ - (ع-۱) مذہب) ٹوٹ سکنے والا معاہدہ۔

معاہدہ - (ع-۱) مذہب) ٹوٹ سکنے والا معاہدہ۔

معشوقی - (مغ - شو - قی) (ع - ف - ا - مٹ) دل فزبی - دلیری - دلیری - دلیری
 محبوبیت - دوستی - محبت -
 معصوم - (مغ - عطف - ف) (ع - صفت) کسم سے رنگا ہوا -
 معصوم - (مغ - عطف - ف) (ع - صفت) ایسے گناہ بے قصور - پاک دامن - مہ - منتخا
 کسی - بچہ (۳) بھولا - سیدھا سادہ -
 معصومیت - (مغ - عطف - ف) (ع - صفت) ایسے گناہی پاکدامنی -
 سادگی - بھولائی - بچپن -
 معصیت - (مغ - عطف - ف) (ع - صفت) گناہ - قصور - خطا - باپ (۲)
 معطر - (مغ - عطف - ف) (ع - صفت) خوشبودار خوشبوئیں لہا ہوا -
 معطل - (مغ - عطف - ف) (ع - صفت) ایسے کار کام سے خالی - مہ - سست
 کاہل - ڈھیلا (۳) کھما دم - کچھ دنوں کے لیے بے کار (۵) - توجہ غیر موزوں
 اقتادہ ترفین -
 معطل ڈال رکھنا - (۱۶ - محاورہ) بیکار رکھنا - کسی کام میں نہ لانا -
 معطل کرنا - (۱۷ - محاورہ) کچھ عرصے کے لیے کام سے ہٹا دینا -
 معطلی - (مغ - عطف - ط - لی) (ع - ف - ا - مٹ) ایسے کاری - کام
 سے علیحدگی -
 معطوف - (مغ - عطف - ف) (ع - صفت) پھیرا گیا - لپٹا ہوا - موڑا ہوا
 جھکا یا گیا (۲) (۱۶ - مذ) خوبیں وہ کلر جو حرت عطف کے بعد
 واقع ہو -
 معطوف علیہ - (ع - صفت) وہ کلر یا کلام جو حرت عطف سے
 پہلے واقع ہو -
 معطی - (مغ - عطف - ط - لی) (ع - صفت) اٹھانے والا (۲) - خدائے تعالیٰ کا ایک
 نام - معین -
 معطلی - (ع - صفت) وہ جس کے لیے کچھ عطا کیا گیا ہو -
 معظم - (مغ - عطف - ف) (ع - صفت) بڑی دیا گیا - بڑگ - بڑا شریف -
 واجب التعمیر -
 معظمتہ - (مغ - عطف - ف) (ع - صفت) تعظیم کی کوئی - بزرگ عورت - محترم
 خاتون - معظمت کی تائیت - معظمت -
 معقدہ - (ع - صفت) پیچیدہ -
 معقول - (مغ - قول - ا) (ع - صفت) عقل دیا گیا - عقل میں لایا گیا (۲) - قوت
 عقل - پسندیدہ عقل (۳) - مناسب - واجب - تمحیک - ہجما
 درست دم - اچھا بھلا - پسندیدہ (۵) - مہذب - فہمیدہ -
 شائستہ (۶) - قابل - لائق - لائق - لائق (۷) - حسب اطمینان خاطر خواہ
 (۸) - موزوں - زیبا - شایان - چھپتا ہوا (۹) - کافی (۱۰) - قابل
 ماننے والا (۱۱) - مقابلے سے عاجز - بند - لاجواب (۱۲) - وہ
 جو خواہ چنگانہ سے محسوس نہ ہو (۱۳) - (طنزاً) کیا خوب (۱۴) - فلسفہ
 منطقی - جمع - معقولات -
 معقول آدمی - (ع - ف - ا - مٹ) مہذب آدمی - شائستہ انسان -

معزکہ سر ہونا - (۱۶ - محاورہ) مقابلے میں فتح حاصل ہونا -
 معزکہ کا - (۱۱ - محاورہ) مشکل دشوار - بھاری - دھوم دھام کا -
 معزکہ کا - (ع - ف - ا - مذ) لڑائی کی جگہ - میدان جنگ -
 معزکہ گرم ہونا - (۱۶ - محاورہ) لڑائی کا زوروں پر ہونا - سخت ہنگامہ پڑنا -
 معزکہ گذرنا - (۱۱ - محاورہ) جھگڑا ہونا - مقابلہ ہونا -
 معزکہ مارنا - (۱۶ - محاورہ) مقابلے میں کامیابی حاصل کرنا -
 معزکہ ہونا - (۱۶ - محاورہ) ہنگامہ ہونا - لڑائی ہونا - مقابلہ ہونا -
 معزکے کا آدمی - (ع - ا - مذ) مرد میدان - بہادر آدمی -
 معروض - (مغ - عرض - ف) (ع - صفت) عرض کیا گیا - پیش کیا گیا (۲) (۱۶ - مٹ)
 التماس - عرض - گزارش - درخواست -
 معروضہ - (مغ - رض - ف) (ع - صفت) عرضی - عرضہ - گزارش
 معروض کی تائیت -
 معروضی - (ع - صفت) خارجی - واقعی (انگ) (Objective)
 معروضیت - (ع - ا - مٹ) اصطلاح فلسفہ - یہ نظریہ کہ خارجی
 اشیاء کا علم مقدم اور حقیقی ہے (انگ) (Objectism)
 معروف - (مغ - روف - ف) (ع - صفت) مشہور - معلوم - ظاہر - الم شرح
 (۲) - نیک بات (۳) - علم صرف میں فعل جس کا فاعل معلوم
 ہو جیسے نامرنے کریم سے کہا (م) وہ حرفت جس کے پہلے ہیں
 ہو اور خوب کہیں کچھ پڑھا جائے - جیسے لڑ - حور (۵) وہ یا نے
 جس کے پہلے کسرہ ہو اور خوب کہیں کچھ پڑھی جائے -
 جیسے وزیر - نظیر -
 معزز - (مغ - عز - ف) (ع - صفت) عزت دینے والا (۲) - خدائے تعالیٰ
 کا ایک نام -
 معزز - (مغ - عز - ف) (ع - صفت) عزت دار - یا وقت - بزرگ - بڑا
 بڑا شریف - جمع - معززین -
 معزول - (مغ - زول - ف) (ع - صفت) موقوف کیا گیا - نوکری سے برطرف کیا گیا
 سخت یا گدی سے اتارا گیا بے کار کیا ہوا -
 معزولی - (مغ - زولی - ف) (ع - ا - مٹ) موقوفی - معطلی - برطرفی -
 بے کاری -
 معسکر - (مغ - عس - ف) (ع - ا - مذ) شکر آرنے کی جگہ - پڑاؤ - چھاؤنی - کیس
 لشکر کا -
 معشورہ - (مغ - عس - ف) (ع - ا - مذ) آدمیوں کا گروہ (۲) - سوسائٹی -
 معشورہ - (مغ - عس - ف) (ع - صفت) دس سے مشوب - دس پہلو کا (۳)
 نظم کی ایک قسم -
 معشوق - (مغ - شوق - ف) (ع - ا - مذ) جس پر کوئی عاشق ہو - محبوب - پیارا
 دلبر - دلدار - دلربا -
 معشوقانہ - (مغ - شوق - ف) (ع - صفت) معشوق سے مشوب - محبوب
 کے مانند (۲) - دلکش - دلنریب -
 معشوقانہ انداز - (ع - ف - ا - مٹ) دل بھانے والی ادائیں -
 معشوقہ - (مغ - شو - قی) (ع - ا - مٹ) محبوبہ - پیاری - وہ عورت

سمجھ دار آدمی۔

معقول تنخواہ - (ع-ف-۱)۔ مٹ (کافی تنخواہ - اچھا مشاہرہ۔

معقول کرنا - (مجاورہ) قابل کرنا یا جواب کرنا - عاجز کرنا۔

معقول می شونڈ جو معزول می شونڈ - (مٹ)۔ مثل (جب لوگ اپنے

مبدے سے ہٹا دیئے جاتے ہیں تو انہیں مقل آجاتی ہے۔

معقولات - (مٹ-قولات، ۱۶-۱)۔ مٹ (معقول کی جمع - علوم حکمت

فلسفہ و منطق)۔

مقبولی - (مٹ-قولی)۔ (ع-صفت)۔ منطقی - فلسفی۔

مقبولیت - (مٹ-قولی نیت)۔ (ع-۱)۔ مٹ (انسانیت - سمجھ بوجھ

پسندیدگی - مناسبت۔

مکسوس - (مٹ-کوس)۔ (ع-صفت)۔ اٹا - اُوندھا - ٹیڑھا۔

مُعلا - معلیٰ - (مٹ-عل-لا)۔ (ع-صفت)۔ بلند کیا گیا۔ عالی - اُدبجا۔

بزرگ - منعم۔

معیار القاب - (ع-صفت)۔ بڑے القاب والا۔ عالی رتبہ عالی جاہ۔

معلقی - (مٹ-معل-لق)۔ (ع-صفت)۔ لٹکا ہوا۔ اُڈیزال - لٹکا ہوا۔

معلقہ - (ع-صفت)۔ مٹ (معلق کی تائید - ٹکلی ہوئی)۔ وہ عورت

جس کو شوہر نے طلاق دے اور نہ اس سے تعلق قائم رکھے۔

معلم - (مٹ-ملم)۔ (ع-۱)۔ مٹ (علامت - نشانی)۔ (مجازاً)

ادنیٰ جہاں۔

معلم - (مٹ-معل-لم)۔ (ع-۱)۔ مٹ (معلم سکھانے والا - استاد - مدرس - ادیب

گردور)۔ (مٹ-۲)۔ مٹ (مذکر معترض اور مدینہ منورہ میں وہ شخص جو حج و

عمرہ کرنے والوں کو دعائیں پڑھاتا ہے)۔ (مٹ-۱)۔ مٹ (معلّمین۔

معلم الملوک - (مٹ-۱)۔ مٹ (مذکر معترض کا استاد - شیطان جس کی بابت

مشہور ہے کہ فرشتوں کو تعلیم دیا کرتا تھا۔

معلم اول - (ع-۱)۔ مٹ (اسطو میں نئے علم حکمت کو سب سے پہلے کتابت میں

لا کر پڑھانا شروع کیا۔

معلم ثانی - (ع-۱)۔ مٹ (المنصر فارابی کا لقب جس نے اسطو کی کتب

حکمت کا عربی میں ترجمہ کر کے تعلیم دینا شروع کی۔

معلم ثالث - (ع-۱)۔ مٹ (مذکر معترض کو علی سینا کا لقب جس نے فارابی کے بعد

اسطو میں تصنیف کیں۔

معلمہ - (مٹ-معل-یل)۔ مٹ (۱)۔ مٹ (تعلیم دینے والی عورت

استانی - جمع - معلمات -

معلّی - (مٹ-معل-یل)۔ (ع-۱)۔ مٹ (پچول کو پڑھانے کا

پیشہ - مدرسہ - تالیقی -

معلّمین - (مٹ-معل-یل)۔ (ع-۱)۔ مٹ (اعلان کرنے والا۔

معلول - (مٹ-قولی)۔ (ع-صفت)۔ عدت کیا گیا۔ وہ شخص جس کا کوئی باعث

یا سبب ہو۔ وہ چیز جسے علت یا اسباب سے ثابت کریں۔ ۲)۔

اصطلاح منطق میں نتیجہ - پچیل - نمبرہ۔

معلوم - (مٹ-موم)۔ (ع-۱)۔ مٹ (جانا گیا۔ تمیز کیا گیا)۔ ۲)۔ ظاہر ہونے

یا واضح ہونا۔ ۳)۔ مشہور معلومت، نامعلوم - دستاویز

ان ایک رسائی معلوم۔

معلوم دینا - (مجاورہ) دکھائی دینا۔ سوچنا۔ نظر آنا۔

معلوم کرنا - (مجاورہ) دریافت کرنا۔ کھوج لگانا۔ پتہ چلانا ۳)۔ سمجھنا۔

جاننا۔ خیال میں لانام ۳)۔ پتہ چنانچہ۔ تمیز کرنا ۴)۔ تجربہ کرنا۔ آزمائش کرنا

جانچنا۔ امتحان کرنا۔

معلوم نہیں - (۱)۔ تابع فعل (خبر نہیں)۔ میں نہیں جانتا۔ خدا معلوم۔

معلوم ہوتا ہے - (مجاورہ) خیال گزرتا ہے۔ نظر آتا ہے۔

معلوم ہونا - (مجاورہ) ظاہر ہونا۔ سمجھ لگنا ۲)۔ دکھائی دینا۔ نظر

آنا۔ سوچنا ۳)۔ تمیز ہونا۔ شناخت ہونا۔ پہچان میں آنا ۴)۔ تمسوس

ہونا۔ جس میں آنا (۵)۔ خیال میں آنا۔ خیال گزرتا (۶)۔ سزا ملنا

پاداش کو پہنچنا (۷)۔ وقت پیش آنا۔ قدر عاقبت لگنا۔ تجربہ پڑنا۔

معلومات - (مٹ-معل-مات)۔ (ع-۱)۔ مٹ (معلوم کی جمع - واقفیت تجربہ

علمی لیاقت - محسوسات - علم۔

معلومہ - (مٹ-موم)۔ (ع-صفت)۔ جانی گئی۔ جس کا حال پہلے سے

معلوم ہو۔

معمّا - (مٹ-معم)۔ (ع-۱)۔ مٹ (منصف - پوشیدہ - مجہم - اہمیلی

چستان - وہ بات جو بطور رمز بیان کی جائے (۳)۔ پتہ چیدہ بات

الغیا ہوا مسئلہ۔

معمّا حل کرنا - (مجاورہ) پتہ چلی بوجھا۔ چستان سمجھا۔ (۲)۔ پتہ چیدہ یا

معمّا مشکل بات سلجھانا۔

معمّا لکھنا - (مجاورہ) پوشیدہ بات کا ظاہر ہونا۔ راز افشا ہونا۔

معمّا - (مٹ-معم)۔ (ع-۱)۔ مٹ (مہارت بنانے والا - مدبر - مستری۔

معمّا - (مٹ-معم)۔ (ع-۱)۔ مٹ (راج گیری - عمارت سازی

مکان تعمیر کرنے کا پیشہ۔

معمّم - (مٹ-معم)۔ (ع-۱)۔ مٹ (عمر رسیدہ - بوڑھا - بڑی عمر کا

لہن سال۔

معمّل - (ع-۱)۔ مٹ (عملی کرنے کی جگہ - تجربہ گاہ - انگ (Laboratory)

معمور - (مٹ-معمور)۔ (ع-صفت)۔ سمجھا ہوا۔ لبریز (۲)۔ آباد - بسا ہوا

معمور کرنا - (مجاورہ) بھرنا (۲)۔ آباد کرنا - بسانا (۳)۔ بند کرنا۔

بھرا ہوا۔

معمورہ - (مٹ-معمورہ)۔ (ع-۱)۔ مٹ (آبادی - بستی)۔ ۲)۔ مزروعہ زمین۔

کاشت شدہ زمین (جمع)۔ معمورات -

معموری - (مٹ-معموری)۔ (ع-۱)۔ مٹ (بھرا ہوا - لبریز ہونا)۔ ۲)۔

آبادی - آباد ہونا۔

معمول - (مٹ-ممول)۔ (ع-صفت)۔ عمل کیا گیا۔ وہ شخص جس پر عمل کیا

گیا ہو (۳)۔ وہ بات جو روزمرہ کی جائے (م)۔ رواج - دستور

قاعدہ - رواج - سرشتہ۔

معمول بانڈھنا - (مجاورہ) دستور مقرر کرنا۔ روئے اختیار کرنا۔

قاعدہ بانڈھنا۔

معمول - معمول (ع۔ف۔ت) تابع فعل (قاعدے کے مطابق) دستور کے موافق

معمول ہندھنا - (۱۔ محاورہ) قاعدہ مقرر ہونا۔ رواج پڑنا۔

معمول پڑنا - (۱۔ محاورہ) کسی کام کے کرنے کی عادت بوجانا۔ روز کی عادت ہونا۔

معمول سے - (۱۔ تابع فعل) معمول کے موافق حسب دستور۔

معمول کے دن - (۱۔ لہذا) جس دن آنے کے دن آیام ماہواری۔

معمول کے دن گل جانا - (۱۔ محاورہ) حیض کا زمانہ گل جانا۔ حیض نہ آنا۔ کنایت پیدہ جانا۔ پیت رہ جلنے کی علامت ظاہر ہونا۔

معمولی - (م۔ع۔ف۔ت) صفت (مروجہ رسمی) ادنیٰ۔

معمولی کارروائی - (۱۔ م۔ت) کارروائی جو عام طور پر ہوتی ہے ضابطے کی کارروائی۔

معتز برہم - (م۔ع۔ف۔ت) صفت (میر کی خوشبو سے بسا ہوا) معتطر خوشبو دار۔

معتون - (م۔ع۔ف۔ت) صفت (عنوان کیا گیا (۲) دیباچہ کیا گیا (۳) نامزد کیا گیا کسی کے نام منسوب کیا گیا۔

معتوسی - (م۔ع۔ف۔ت) صفت (معتی سے منسوب (۲) اصلی ذاتی حقیقی (۳) اندرونی۔ باطنی۔

معتوی اولاد - (م۔ع۔ف۔ت) اولاد کنایتاً شادگرد معتقد۔ پیرو۔

معتی - (م۔ع۔ف۔ت) صفت (معتی بنی) (۱۔ لہذا) مقصد ارادہ۔ مدعا۔ مطلب نفاذ۔ مراد (۲) سبب۔ وجہ۔ باعث (۳) اصلیت۔ ماہیت۔ حقیقت۔ جمع۔ معانی۔

معتی الٹ دینا - (۱۔ محاورہ) مطلب بدل دینا۔ مطلب کچھ کچھ کر دینا۔

معتی بیان کرنا - (۱۔ محاورہ) مطلب سمجھانا۔ ترجیح کرنا۔

معتی بیگانہ - (ع۔ف۔ت) (۱۔ لہذا) وہ تازہ مضمون جو پہلے کسی نے نہ بانڈھا ہو۔

معتی پرور - (ع۔ف۔ت) صفت (معتی پیدا کرنے والا۔ ماہر انشاء پرداز۔

معتی پیشیدہ - (ع۔ف۔ت) صفت (وہ مطلب جو بغیر غور و خوض کے سمجھ میں نہ آئے۔

معتی خیز - (ع۔ف۔ت) صفت (پُر معنی۔

معتی دینا - (۱۔ محاورہ) [معنی کھٹنا۔ معنی بیان کرنا۔ (۲) دلالت کرنا۔ جتنا۔

معتی رکھنا - (۱۔ محاورہ) مطلب رکھنا۔ ظاہر کرنا۔

معتی کھٹنا - (۱۔ محاورہ) مطلب ظاہر ہونا۔

معتنا - (ع۔ت) تابع فعل (معنی کے اعتبار سے۔

معتوتان - (معتوتین) (ع۔ف۔ت) قرآن مجید کی آخری دو سورتیں یعنی سورہ الفلق اور سورہ الناس۔

معتوت - (ع۔ف۔ت) (۱۔ م۔ت) مدد کرنا۔

معتوت - (م۔ع۔ف۔ت) صفت (معتی بنی) (۱۔ م۔ت) باطن بن۔

معتود - (م۔ع۔ف۔ت) صفت (معتی بنی) (۱۔ م۔ت) باطن بن۔

معتود خارجی - (ع۔ف۔ت) (۱۔ لہذا) وہ نگرہ جو کسی وجہ سے ذات معین پر دلالت کرے جیسے نیل سے حضرت ابراہیم علیہ السلام مراد لینا۔

معتود ذہنی - (ع۔ف۔ت) (۱۔ لہذا) وہ اسم نکرہ جو ذہن مشطلم یا مخاطب میں معین ہو۔

معیار - (م۔ع۔ف۔ت) صفت (یار) (ع۔ف۔ت) (۱۔ م۔ت) کسوٹی۔ محکم۔ کھرا کھوٹا جانچنے کا پتھر (۲) اپنے یا دوزن کرنے کا آلہ (۳) اندازہ پیمانہ۔ معاہدہ نصاب (۴) پرکھ۔ جانچ۔

معیار بندی - (ع۔ف۔ت) (۱۔ م۔ت) درجہ بدرجہ کرنا۔

معیار بنانا - (۱۔ محاورہ) (م۔ع۔ف۔ت) (۱۔ م۔ت) (۲) نام۔ اور۔ مص۔ اعلیٰ درجہ کی بنانا۔ (Standardize)

معیوب - (ع۔ف۔ت) (۱۔ لہذا) معیوب دار۔ نقص دار۔

معیبت - (م۔ع۔ف۔ت) صفت (معتی بنی) (۱۔ م۔ت) ساتھ۔ ہمراہی۔

معیشت - (م۔ع۔ف۔ت) صفت (معتی بنی) (۱۔ م۔ت) زندگی۔ زندگی۔ زیست حیات (۲) پیش (۳) روزگار۔ روزی۔

معیشت عملی - (ع۔ف۔ت) (۱۔ م۔ت) علم معاشیات کی وہ قسم جو عمل میں آئے۔ (Applied Economics)

معیین - (م۔ع۔ف۔ت) صفت (معتی بنی) (۱۔ م۔ت) اعانت کرنے والا۔ مددگار۔ معاون (۲) خدا کا ایک نام۔

معیین - (م۔ع۔ف۔ت) صفت (معتی بنی) (۱۔ م۔ت) معین کیا گیا۔ ٹھہرایا گیا۔ مقررہ۔ مہود۔ مفروضہ (۲) علم ہندسہ میں وہ شکل جس کے چاروں ضلعے برابر ہوں مگر زاویے قائمے نہ ہوں۔

معیین کرنا - (۱۔ م۔ت) (۱۔ م۔ت) معین کرنا۔ ٹھہرانا۔

معیین ہونا - (۱۔ م۔ت) (۱۔ م۔ت) معین ہونا۔ قرار پانا۔ ٹھہرنا۔

معیینہ - (ع۔ف۔ت) (۱۔ م۔ت) معین کیا ہوا۔ معین کی تائید۔

معیوب - (م۔ع۔ف۔ت) صفت (معتی بنی) (۱۔ م۔ت) (۲) نام۔ قابل شرم باعث ندامت۔

م۔ع۔م

مغ - (ع۔ف۔ت) (۱۔ لہذا) آتش پرست۔ آگ کی پرچا کرنے والا۔ گبر۔ جموس (۲) کلال سے فرش۔ جمع۔ مغال۔

مغ پختہ - آتش پرست کا لاکار (۲) کلال کا لاکار (۳) خوبصورت لاکار (۴) بھنگ پینے والوں کی اصطلاح میں بھنگ کا بیج۔

مغارب - (م۔ع۔ف۔ت) صفت (معتی بنی) (۱۔ م۔ت) مغرب کی جمع۔

منگ - (م - ناک) (ف - ا مذم غار - گڑھا - پہاڑ کی کھوہ -
منگازی - (م - غازی، (ع - ا - مذم مغزی کی جمع - لڑائیاں - کافروں
 کے ساتھ جنگ - خصوصاً وہ لڑائیاں جن میں حضور مسلم خود موجود
 تھے (۱۲) جنگی خوبیاں - غازیوں کے اوصاف کا بیان -
منخالطہ - (م - فال - ظ - ع - ا - مذم دھوکا - فریب - دغا - مکر - دم - جھانسا
 (۲) قبول چوک -
منخالطہ دینا - (۱) - محاورہ (۲) فریب دینا - غلطی میں ڈالنا - گم راہ کرنا -
منخالطہ ڈالنا - (۱) - محاورہ (۲) غلطی ڈالنا - شیر ڈالنا -
منخال - (م - خال) (ن - ا - مذم منج کی جمع - آتش پرست لوگ -
منخالس (منخالیس) - (ع - صفت) ناموافق - مخالفت - غیر -
منخائرت - (م - غا - خی - یش) (ع - ا - مذم) (ع - ا - مذم) غیرت - اجنبیت -
 ناموافقیت - بیسے کا گٹھ -
منخنم - (ن - م - ع - صفت) غنیمت سمجھا گیا - غنیمت -
منخنمات - (ن - م - ع - صفت) غنیمت چیزیں -
منغرب - (م - غ - ا - مذم) (ع - ا - مذم) سورج غروب ہونے کی
 جگہ پچھم (۲) وہ نماز جو غروب آفتاب کے عین بعد پڑھی
 جاتی ہے -
منغرب سے آفتاب نکلنا - (۱) - محاورہ (۲) قیامت کی علامت
 ظاہر ہونا - مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ قیامت کے قریب مغرب
 سے آفتاب طلوع ہوگا -
منغری - (ن - م - ر - بی) (ع - صفت) مغرب کا پچھم (۲) فارسی کے
 ایک مشہور شاعر کا تخلص
منغربیت - (ن - م - ر - بی) (ع - ا - مذم) (ع - ا - مذم) مغرب کا اثر یورپ
 کے انداز و اطوار -
منغرق - (م - غ - ر - ق) (ع - صفت) اپنی میں ڈوبا ہو دارس جگمگاتا ہو (۲)
 سونے چاندی میں لپا ہوا -
منغرق - (ع - صفت) ڈوبا ہوا (۲) غرق کیا ہوا - مبالغہ کیا ہوا -
منغزور - (ن - م - زور) (ع - صفت) حکم - خود پرست - گمنڈی -
منغزور ہونا - (۱) - محاورہ (۲) غزور کرنا - اترانا - پیچھے میں آنا -
منغزوری - (ن - م - زوری) (ع - صفت) (۱) - مذم (۲) غزور - گمنڈی - نخوت -
منغز - (ع - ا - مذم) (ع - صفت) بھیجا رہی گئی - گودا - کسی چوکا اندولنی حصہ -
 (۳) مجازاً عقل - کچھ - نیم فراست (۴) جزا - انجام - اصل - خلاصہ
 (۵) تکبر - غزور - دماغ - جمع - مغزیات -
منغز اڑانا - (۱) - محاورہ (۲) دماغ پریشان ہونا -
منغز استخوان - (ع - صفت) (۱) - مذم (۲) ہڈی کا گودا -
منغز بھانسا - (۱) - محاورہ (۲) دماغ بھراننا - تیز خوشیوں یا برپوشی
 دماغ پریشان ہونا -
منغز بچی کرنا - (۱) - محاورہ (۲) دیکر دماغ لڑانا - دیکر بھانا - بک بک
 کرنا - سزا مارنا - ہمت دیکر اڑنا -
منغز پیللا کر دینا - (۱) - محاورہ (۲) مارتے مارتے سر ہلا کر دینا - سر کو

ہمت سے دھب رسید کرنا -
منغز بھینا - (۱) - محاورہ (۲) بددماغ ہونا - دیوانہ ہونا -
منغز جاننا - (۱) - محاورہ (۲) دماغ کھانا بک کر کے دوسرے کا دماغ خالی
 کر دینا - جان کھانا - بالوں سے دق کر دینا -
منغز چٹ - (۱) - صفت (۲) بکواسی - فضولی باتوں سے دوسرے کا
 دماغ پریشان کرنے والا -
منغز چٹی - (۱) - مذم (۲) بکواسی بک - بھک بھک -
منغز چل جانا - (۱) - محاورہ (۲) دیوانہ ہونا - مغزور ہونا -
منغز خالی کرنا - (۱) - محاورہ (۲) کسی کو دیک سمجھانے جانا - سروانا
منغز خالی ہونا - (۱) - محاورہ (۲) دماغ خالی ہونا
منغز وار - (ع - ن - صفت) گودے دار (۲) چرب اور فصیح -
منغز روشن - (۱) - مذم (۲) کھلتا - نشور -
منغز زنی کرنا - (۱) - مص مرکب (۲) سر کھینا - دماغ لڑانا -
منغز سخن - (ع - ن - ا - مذم) بات کی تہ - کلام کی حقیقت -
منغز سے اتارنا (نکالنا) - (۱) - محاورہ (۲) دماغ سے نہایت عمدہ
 بات نکالنا -
منغز سے دماغ خالی ہونا - (۱) - محاورہ (۲) کم عقل ہونا - بیوقوف ہونا -
منغز سے کپڑے جھاڑنا - (۱) - محاورہ (۲) شکر کا غرور توڑنا - سر کو
 جوتے مارنا -
منغز کا - (۱) - صفت (۲) اچھے دماغ کا - سمودار - مالی دماغ -
منغز کو جھڑھنا - (۱) - محاورہ (۲) نشہ کا دماغ پر اثر ہونا - اتر جانا - مغزور
 ہونا -
منغز دکھانا - (۱) - محاورہ (۲) بک بک سے دماغ چاٹ جانا
 نکل جانا - خور کرنا -
منغز کھینا - (۱) - محاورہ (۲) سمجھانے کی کوشش کرنا -
منغز کے کپڑے اڑانا - (۱) - محاورہ (۲) بکواسی کر کے دماغ پریشان کرنا
منغز کے کپڑے جھڑھنا (نکل جانا) - (۱) - محاورہ (۲) سزا پانا - مزاج
 سردست ہو جانا - سپرد جا ہونا - غرور مٹ جانا -
منغز کی کیل نکلنا (نکل جانا) - (۱) - محاورہ (۲) غرور ختم ہو جانا -
 گنڈ مٹ جانا - خوش خوائی کم ہو جانا - شہوت فرد ہونا -
منغز کے کپڑے نہ اڑنا - (۱) - محاورہ (۲) بکواسی مت کرور
 دماغ نہ کھاد -
منغز مارتا - (۱) - محاورہ (۲) کشتی کرنا - سر کھینا (۲) سر کھینا -
منغز میں کپڑا ہونا - (۱) - محاورہ (۲) بڑا بچی ہونا - نہایت بالائی ہونا -
منغزی - (ن - م - زوری) (ع - صفت) (۱) - مذم (۲) ایک قسم کا صلہ -
منغزوں - (ن - م - زوری) (ع - صفت) غسل دیا گیا - دھویا ہوا -
منغزوں - (ن - م - زوری) (ع - صفت) (۱) - مذم (۲) دھوکے باز -
 ریا کار - بے دماغ -
منغزوں - (ع - ا - مذم) (ع - صفت) (۱) - مذم (۲) لوہے کی جالی جو خود کے اندر بہتی جاتی ہے -
 (۲) خود - لوہے کا لوہا جو لڑائی میں پہننے میں (۳) منافق -

مَغْضُوبٌ - (منع، صوب، جع) صف غضب کیا گیا۔ جس پر غصہ ہو۔
مَغْفَرَةٌ - (منع، ف، رشت، ا، ج، ۱۱-۱۰) مٹاؤ، بخشش، نجات۔ رہائی، چھٹکارا۔
 خلاصی، برکت۔
مَغْفُورٌ - (منع، ذر) (ع) صف مغفرت کیا گیا۔ بخشا گیا، مہربان، بہشتی۔
مَغْلٌ - (رم، غل) (ف، ۱۱-۱۰) مٹاؤ، ایک قسم کا جھوٹا منگولیا ہے۔ تازی، تکرول
 کا ایک اعلیٰ فرقہ (۲) سادہ دل، جمع، منڈاں۔ منول۔
مَغْلٌ طِمْحَانٌ - (۱۱-۱۰) مٹاؤ، ایک کھیل جو خانے کھینچ کر سولہ کنکر لوں سے کھیلا جاتا ہے۔
مَغْلٌ طِمْحَانٌ لَطْمَانٌ - (۱۱-۱۰) محاورہ (یکیتی چاڑھی میں سے جو آواز نکلتی ہے) اُسے مغل
 طمچان لڑا کہتے ہیں۔ کھد، کھد، پھونکا، کھد، پھونکا۔
مَغْلًا - (منع، لا، ات، ا) (۱۱-۱۰) مٹاؤ، منحل کا تصغیر۔
مَغْلَانِي - (منع، لا، لانی) (۱۱-۱۰) مٹاؤ، مغل قوم کی عورت (۲) دوزن - کپڑے
 سینے والی عورت، خاص کر اس عورت کہتے ہیں جو خواتین منگلیہ کے
 خاص و صنف اور تراش کے کپڑے سیا کرتی تھی (۳) محل سرا میں رہنے
 والی خادمہ، ملازمہ، ماراججی، منگلیاں۔
مَغْلَانِي - (منع، لا، ای، ات، جع) صف (مغلوں کی طرز کا۔ مغلوں کی طرز و
 روش کی پیروی۔
مَغْلَظٌ - (رم، غل، لظ) (ع) صف (گاڑھا ر (۲) دیزر۔ موٹا، سخت، مضبوط
 (۳) قمیش، ناپاک (۵) گندا، میلا۔
مَغْلَظٌ - (رم، غل، لظ) (ع) صف (گاڑھا کرنے والا۔
مَغْلَظَاتٌ - (رم، غل، زل، ظات) (ع، ۱۱-۱۰) مٹاؤ، موٹی موٹی گالیاں۔
 قمیش باتیں۔
مَغْلَظَاتٌ سَنَانَا - (منع، لظ، ا، جع) صف (بند کیا گیا، بند کیا، ہوا۔ مقفل (۲) دقیق
 متفصل۔ دور از فہم۔
مَغْلَظٌ - (منع، لظ، جع) صف (اغلام کرنے والا۔ موٹلی، لوٹے سے باز۔
 مغلوب - (منع، لظ، ا، جع) صف (غلبہ کیا گیا، ہارا، ہوا، مطروح، شکست
 خوردہ (۲) دبا ہوا، عاجز، زیر۔ جمع - مغلوبین، مغلوبان۔
مَغْلُوبٌ الغَضْب - (ع) صف (جو غصے جلد غصے میں آہلنے -
 نیز مزاج - تند مزاج۔
مَغْلُوبٌ كَرْنَاہُ - (۱۱-۱۰) دبا ہوا، عاجز کرنا (۲) فتح کرنا، تالیق کرنا، تھکانا۔
مَغْلُوبِيَّتٌ - (منع، لظ، لانی، ا، جع) (۱۱-۱۰) مٹاؤ، اطاعت، عاجزی، دباؤ، محکومیت
 فرمان برداری۔
مَغْلُوبٌ - (ع) صف (غلط کیا گیا۔
مَغْلُوبٌ - (ع) صف (درداڑہ بند کیا گیا۔
مَغْلُوبٌ - (ع) صف (جس کی گردن میں طوق ڈالا گیا ہو۔
مَغْلِي - (منع، ل، ای، ات، جع) صف (منحل سے منسوب۔
مَغْلِي چھوٹا - (۱۱-۱۰) مٹاؤ، ایک قسم کا چھوٹا، جڑ بہت، دونوں میں اچھا ہوتا ہے
 اور رنگ زریب، گولہ گندہ اور دیبا پور کی ریاستیں فتح کرنے والی
 گیارہ لڑائی لڑنے عرصہ تک جاری رہی، گوہرنی، آب و ہوا

سے سہا پہوں کے بدن میں بھوڑے ہو گئے جو بہت عرصہ میں
 ٹھیک ہوتے تھے۔
مَغْلِي لُونِي - (۱۱-۱۰) مٹاؤ، ایک قسم کی اُدھے گوشوں والی ٹوپی۔
مَغْلِي ہَاڑٹ - (۱۱-۱۰) مٹاؤ، زبردست ہڈی، چڑھی، چکی ہڈی۔ مغلوں کا چہرہ چوڑا
 اور بدن کی ہڈیاں چکی ہوں ہیں۔
مَغْلِي - (منع، ل، ا، جع) صف (منحل سے منسوب۔
مَغْلِي، بِيَارِي - (۱۱-۱۰) مٹاؤ، آنکھوں کا ایک مرض جس میں ہاتھ پاؤں ٹیڑھے ہوتے
 ہیں، اُم العصبیان، پسلی کا غلغل، مسان کا مرض۔
مَغْلِي مَبَج - (۱۱-۱۰) صف (مغلوں کے داؤں گھات۔
مَغْلِي كَهْطِي - (۱۱-۱۰) مٹاؤ، ایک خاص قسم کی گھٹی جو مغلوں میں بچوں کو دی
 جاتی تھی۔
مَغْلِيہ - (رم، غل، ی، ا، جع) صف (مغل خاندان سے منسوب۔
 جیسے مغل حکومت (۲) مٹاؤ، منحل قوم کا آدمی۔
مَغْلِيہ - (منع، موم، جع) صف (نگلیں، رنجیدہ، طول، دلگیر، آرزو۔
 غمزوہ، اداس، فکروندہ، پریشان۔
مَغْلِي - (منع، لظ، ا، جع) صف (یہ یاد کرنے والا۔ امیر یا آزاد کرنے والا
 (۲) خداداد تعالیٰ کا ایک نام۔
مَغْلِي - (رم، غل، ی، ا، جع) (۱۱-۱۰) مٹاؤ، گھانے والا، گویا، دوم، میراث۔
مَغْلِيہ - (رم، غل، ی، ا، جع) (۱۱-۱۰) مٹاؤ، گانے والی عورت، دودھی، میراث۔
مَغْلِي - (ع) صف (گراہ کرنے والا۔ اٹھا کرنے والا۔
مَغْلِيہ - (ع، ف، ۱۱-۱۰) مٹاؤ، آغوا شدہ۔ وہ عورت جسے اغوا کیا
 گیا ہو۔
مَغْلِيَال - (رم، غل، ی، لال، ا، جع) (۱۱-۱۰) مٹاؤ، کیکر، ببول، ایک خادما در رشت۔

م-ف

مَغْاَتِيح - (رم، نایح، جع) (۱۱-۱۰) مٹاؤ، صفحہ کی جمع کنجیاں، جامیاں۔
مَغْاَتِيح - (رم، نا، جات، جع) صف (اچانک، سرفرازی، گاہ، فوراً، یکایک
 نکلنا، آنے والی۔
مَغْاَتِيح - (رم، نا، جات، رشت، جع) (۱۱-۱۰) مٹاؤ، مٹاؤ، شغی، لاف زنی۔
مَغْاَتِيح - (فرخ، نا، گمنند۔
مَغْاَد - (رم، فاد، جع) (۱۱-۱۰) مٹاؤ، فائدہ کی جگہ (۲) نفع۔ فائدہ، جمع، مفادات۔
مَغْاَدِيح - (ع، ف، جع) صف (مطلبی، خود غرض - اپنے فائدے
 سے غرض رکھنے والا۔
مَغْاَرَقِيح - (رم، فاد، رقت، جع) (۱۱-۱۰) مٹاؤ، مٹاؤ، فرقت، علمدگی۔
مَغْاَسِد - (رم، فاد، ساد، جع) (۱۱-۱۰) مٹاؤ، مسندہ کی جمع، فساد، فحشا، بیباں
 برائیاں، فتنے، جھگڑے۔
مَغْاَصِل - (رم، فاد، صل، جع) (۱۱-۱۰) مٹاؤ، مفصل کی جمع، ڈھی کے جوڑے، بند

مفاصلہ - رُم، مُا، ض، لہ، (ع-ا-مذ) ہا ہی فرق - ووری - مسافت
 (۲) وقفہ - وری - عودہ -
 مفاوضات - رُم، مُا، ض، ضات، (ع-ا-مذ) مفاوضہ کی جمع مرسلات
 مکتوبات - وہ خطوط جو برابر والوں یا بزرگوں کو لکھے جائیں۔ وہ خطوط جو
 اعلیٰ کی طرف سے ادنیٰ کو لکھے جائیں۔
 مفاوضت - (ع-ا-مذ) سپرد کرنا - ایک دوسرے کو سونپنا۔
 مفاوضہ - رُم، مُا، ض، ضہ، (ع-ا-مذ) خط چینی۔ نامہ مکتوب۔ جو
 خط اعلیٰ سے ادنیٰ کی طرف ہو۔ جمع، مفاوضات۔
 مفقت - (ف) مفق - بلا قیمت۔ بین داموں۔ بے عوض (۲) ناحق۔
 بے فائدہ۔ لا حاصل (۳) ضائع، اکارت۔ رانگال رہ، بلا سبب
 بے وجہ۔ بے قصور (۵) بیے عنت۔ بیلا شقت۔
 مفقت انانہ - (۱۶) محاورہ م بلا قیمت حاصل ہونا۔ بین داموں مل جانا۔
 مفقت بزاف - (ع) بلا قیمت لے جانے والا۔ مفقت خورا۔
 مفقت بہاؤنا - (۱۶) محاورہ (قیمتی چیز کسی چیز سے) جانے والا۔
 مفقت جی نہ لو چھنا - (۱۱) محاورہ (بہایت بے قدری کرنا۔
 مفقت جان جانا - (۱۶) محاورہ (ناحق مارا جانا۔
 مفقت خندا (مولیٰ) - (ف) صفت (خدا واسطے) ہیکار۔
 مفقت (خوش) خورا - (ف) صفت (بلا عنت و اجرت کھانے والا۔
 مفقت راجہ گفت - (ف) مقولہ (جو چیز مفقت ہے اس میں
 کیا کلام۔
 مفقت سٹال - (ف) صفت (مفقت لے جانا۔
 مفقت ستانی - (ف) م - (مذ) مفقت لینا۔
 مفقت کا - (۱۶) صفت (بے فائدہ - خواہ مخواہ۔
 مفقت کا درد سمر - (۱۶) صفت (بے فائدہ تکلیف۔
 مفقت کا شکار ہے - (۱۶) محاورہ (بے شقت حاصل ہونے والی
 چیز کی شکار)۔
 مفقت گرم و اشتتن - (ف) مثل (خواہ مخواہ احسان جمانا۔
 مفقت کی ٹھائیں ٹھائیں - (۱۶) صفت (بے کار ٹھکانا۔
 مفقت کی شراب - (۱۶) صفت (بین داموں کی چیز۔ بلا قیمت مال۔
 موت کی شراب قاضی کو بھی حلال ہے۔ (۱۶) مثل (مفقت کی چیز مال
 کہنے میں باشرع آدمی ہی جائز مانا جا کر کھیا نہیں کرتا۔
 مفقت گنہگار کرنا - (۱۶) محاورہ (خواہ مخواہ جھگڑے میں پھنسا دینا۔
 مفقت میں - (۱۶) صفت (بے قیمت۔ بلا اجرت۔ یونہی۔ بین داموں (۲) ناحق
 بلا سبب (۳) ہیکار میں رہ، ضائع، اکارت۔
 مفقت ہاتھ لگنا - (۱۶) محاورہ (بلا داموں حاصل ہونا۔ بغیر محنت و
 مشقت کے ملنا۔
 مفقارح - (ع) مفق، تاج، (ع-ا-مذ) کچی چائی، تالی جمع، مفاہیح۔
 مفقح - (ع) مفق، قح، (ع) صفت (فوج کرنے والا۔ بیٹنے والا۔ فاجح (۲)
 کھونے والا۔ وہ دو بوسندوں کو خارج کرے۔
 مفقحات - (ع) مفق، قح، (ع) صفت (ع-ا-مذ) وہ دو ایسی بوچھری۔

مفدے کو گلا دیتی ہیں۔
 مفقذہ - (ع) مفق، ذہ، (ع) صفت (فوج کرنے والا۔ شیخی ہاز۔ ڈینگیا۔ لان زن۔
 مفقذہ کرنا، فرمانا - (۱۶) محاورہ (فوج عطا فرمانا۔ عزت بخشنا۔
 مفقذہ حق - (ع) صفت (فوج کیا گیا۔
 مفقذہ ضات - (ع) مفق، ذہ، (ع) صفت (ع-ا-مذ) وہ چیزیں جو
 فوج کی گئی ہوں۔
 مفقذہ - (ع) مفق، ذہ، (ع) صفت (افتر پرداز۔ الزام لکھنے والا۔ بہتان
 لگانے والا۔ (۲) شریہ۔ مفقذہ - (ع) صفت (باز۔ فوجی۔
 مفقش - (ع) مفق، قش، (ع) صفت (تفتیش کرنے والا۔ دریافت
 کرنے والا۔
 مفقشہ - (ع) مفق، قش، (ع) صفت (فوج کرنا۔ کنگال۔ غریب محتاج۔
 مفقوج - (ع) مفق، قوج، (ع) صفت (کھولا گیا۔ فتح کیا گیا۔ جیتا گیا (۳) وہ
 حرف میں بزرگ ہو۔ جمع - مفتوحین۔ مفتوحان۔
 مفتول - (ع) مفق، قول، (ع) صفت (فقتے میں ڈالا ہوا (۲) مبتلا۔ شیدا۔
 فریفتہ - عاشق۔
 مفتول ہونا - (۱۶) صفت (مفتول ہونا۔ شیدا ہونا۔
 مفتی - (ع) مفق، بقی، (ع) صفت (نہی دینے والا۔ حاکم شرع۔ فقیر۔
 مفتخ - (ع) مفق، قح، (ع-ا-مذ) قابل فخر۔ جس پر فخر کیا جاسکے۔ مائیناز
 جمع مفاخر۔
 مفتخ - (ع) مفق، قح، (ع) صفت (فخر کیا گیا۔ مغزز۔
 مفتخ - (ع) مفق، قح، (ع) صفت (بزرگ دکھایا۔ بزرگ۔
 مفتخر - (ع) مفق، قح، (ع-ا-مذ) وہ (مفتخ) مہمان کی جگہ۔ جلسے فرار۔
 (۲) چارہ کار۔
 مفتخر - (ع) مفق، قح، (ع-ا-مذ) صفت (فوج دینے والا۔ خوش
 کرنے والا۔ فوج بخش (۲) اصطلاح طب میں وہ دوا جو
 طبیعت کو فوج بخشنے۔
 مفتخر قلب - (ع) مفق، قح، (ع) صفت (دل کو فوج دینے والی دوا۔
 مفتحات - (ع) مفق، قح، (ع) صفت (۱) محنت (۲) وہ دو ایسی جو طبیعت کو
 فوج اور خوشی بخشتیں۔
 مفرد - (ع) مفق، قح، (ع) صفت (تہا۔ اکیلا۔ علیحدہ (۲) واحد۔ ایک (۳)
 غیر مرکب۔ لگانا۔ لگانا۔
 مفرد سوار - (ع-ا-مذ) وہ سوار جو اکیلا میدان جنگ میں لڑے اور
 کسی کی مدد کا محتاج نہ ہو۔
 مفردات - (ع) مفق، قح، (ع-ا-مذ) صفت (مفرد کی جمع۔
 حروف، جمعی جیب الگ الگ کیے جائیں جیسے۔ ا۔ ب۔ ت۔ و۔ ف۔
 ہ۔ وہ کتاب جس میں مفرد دواؤں کا حال، بخور (۳) امام راقب
 اصطنائی کی تفسیر قرآن کا نام۔
 مفرد - (ع) مفق، قح، (ع) صفت (فارسی بنایا گیا۔ غیر زبان کا لفظ جیسے
 فارسی بنائیں جیسے (۲) اصول سے ڈھل۔
 مفرد - (ع) مفق، قح، (ع) صفت (بہت زیادہ۔ افراط سے۔ کثرت سے۔

مُفَرِّقٌ - (مُفْرِقٌ، مَفْرُقٌ، مَفْرِقٌ) جہاں کا سما۔ فراری۔ ردپوش ۲۱، وہ شخص جو کوئی جرم کر کے جہاں چلے۔
مُفْرِوَرِی - (مُفْرِوَرِی، مَفْرِوَرِی، مَفْرِوَرِی) - مٹا، مٹا گیا جہاں۔
مُفْرِوَش - (مُفْرِوَش، مَفْرِوَش، مَفْرِوَش) جہاں گیا۔
مُفْرَوقِی - (مُفْرَوقِی، مَفْرَوقِی، مَفْرَوقِی) فرض کیا گیا۔ مانا گیا۔ فرضی قیاسی۔
مُفْرَوقِیَّہ - (مُفْرَوقِیَّہ، مَفْرَوقِیَّہ، مَفْرَوقِیَّہ) وہ بات جہاں استدلال کی بنیاد کے طور پر مان لی جائے۔
مُفْرَوقِی - (مُفْرَوقِی، مَفْرَوقِی، مَفْرَوقِی) صف (مفروق) کیا گیا۔ جدا کیا گیا (۲)، وہ عدد جسے کسی عدد میں سے تقویم کیا گیا ہو۔

مُفْرَوقِی مَنہ - (مُفْرَوقِی مَنہ، مَفْرَوقِی مَنہ، مَفْرَوقِی مَنہ) صف (مفروق) سے کوئی عدد تقویم کیا گیا ہو۔
مُفْسِد - (مُفْسِد، مَفْسِد، مَفْسِد) فساد کرنے والا۔ خرابی ڈالتے والا۔ جھگڑا، مہو، باغی، بغاوت کرنے والا، لوگوں کو آپس میں لڑانے والا۔ شریر۔ جمع ۱۔ مفسدین۔
مُفْسِدانہ - (مُفْسِدانہ، مَفْسِدانہ، مَفْسِدانہ) صف (مفسدین) کی مانند فسادوں کی طرح، فتنہ پردازوں کی طرح۔ باغیانہ۔
مُفْسِدہ - (مُفْسِدہ، مَفْسِدہ، مَفْسِدہ) ۱۔ مہو، جھگڑا، فساد۔ ۲۔ ہلا۔ ہنگامہ۔

مُفْسِدِی - (مُفْسِدِی، مَفْسِدِی، مَفْسِدِی) جھگڑا، فساد کرنے والا۔
مُفْسِدِی بَرْداز - (مُفْسِدِی بَرْداز، مَفْسِدِی بَرْداز، مَفْسِدِی بَرْداز) فتنہ آغیز۔ شریر۔
مُفْسِدِی بَرْدازِی - (مُفْسِدِی بَرْدازِی، مَفْسِدِی بَرْدازِی، مَفْسِدِی بَرْدازِی) شرارت۔
مُفْسِر - (مُفْسِر، مَفْسِر، مَفْسِر) ۱۔ تفسیر کرنے والا۔ شارح۔ مسلمانوں کی اصطلاح میں کلام مجسم کے معنی اور مطلب بیان کرنے والا۔
مُفْصِل - (مُفْصِل، مَفْصِل، مَفْصِل) ۱۔ بدن کا جوڑ۔ ۲۔ اعضاء کا جوڑ۔

مُفْصِل - (مُفْصِل، مَفْصِل، مَفْصِل) جمع۔ مفصلہ۔
مُفْصِل - (مُفْصِل، مَفْصِل، مَفْصِل) ۱۔ تفصیل کی گئی۔ صاف۔ واضح۔ کھول کر بیان کیا گیا۔

مُفْصِل بَیان - (مُفْصِل بَیان، مَفْصِل بَیان، مَفْصِل بَیان) تفصیل دار بیان کرنا۔ جدا جدا کہنا۔
مُفْصِل جَمع - (مُفْصِل جَمع، مَفْصِل جَمع، مَفْصِل جَمع) وہ مجموعی رقم جو غیر دار کا شکاروں سے وصول کیے سرکاری خزانے میں داخل کرتے ہیں۔
مُفْصِلات - (مُفْصِلات، مَفْصِلات، مَفْصِلات) ۱۔ تفصیل۔ ۲۔ شہر کے ارد گرد کے قطعات و درہات۔

مُفْصِلہ - (مُفْصِلہ، مَفْصِلہ، مَفْصِلہ) ۱۔ تفصیل کی گئی۔ کھول کر بیان کیا گیا۔
مُفْصِلہ ذَیل - (مُفْصِلہ ذَیل، مَفْصِلہ ذَیل، مَفْصِلہ ذَیل) وہ چیزیں جن کی تفصیل نیچے لکھی ہوئی ہے۔
مُفْطِر - (مُفْطِر، مَفْطِر، مَفْطِر) روزہ توڑنے والا۔ روزہ کھینچنے والا۔
مُفْعول - (مُفْعول، مَفْعول، مَفْعول) فعل کیا گیا۔ وہ اسم جس پر کوئی فعل واقع ہوا ہو (۲)، کام کرنے والا۔ اظہار کرنے والا۔
مُفْعولِی - (مُفْعولِی، مَفْعولِی، مَفْعولِی) وہ فعل جس میں فاعل کوئی کام واقع ہوا ہو (۱)۔

مُفْعول تانی - (مُفْعول تانی، مَفْعول تانی، مَفْعول تانی) فعل کا دوسرا مُفْعول جیسے کہ رقم نے پینل سے کاغذ پر لکھا۔ اس میں کاغذ مُفْعول تانی ہے۔
مُفْعول فعیہ - (مُفْعول فعیہ، مَفْعول فعیہ، مَفْعول فعیہ) وہ فعل جو وقوع فعل کے مکان یا زمانے پر دلالت کرے یعنی جس میں فاعل کا فعل واقع ہوا ہو۔ جیسے نمودار سے صبح گھر پر سبق یاد کیا۔ اس میں صبح اور گھر مُفْعول فعیہ ہیں۔
مُفْعول لہ - (مُفْعول لہ، مَفْعول لہ، مَفْعول لہ) وہ فعل جو فعل کے سبب پر دلالت کرے جیسے حامد نے کتاب پڑھنے کے لیے مانگی۔

مُفْعولِی کالئم - (مُفْعولِی کالئم، مَفْعولِی کالئم، مَفْعولِی کالئم) وہ فعل جو فاعل کا قائم مقام ہو۔
مُفْعولِی مطلق - (مُفْعولِی مطلق، مَفْعولِی مطلق، مَفْعولِی مطلق) وہ حاصل مصدر جو بطور مُفْعول کے فعل کے ساتھ مذکور ہو۔ جیسے تم کسی چال چلتے ہو۔
مُفْعول موعود - (مُفْعول موعود، مَفْعول موعود، مَفْعول موعود) وہ فعل جو ہمیشہ مُفْعول کے ساتھ شریک حال ہو جیسے انتظار کرنے کے ساتھ کھانا کھانا۔

مُفْعولِی مبرہ - (مُفْعولِی مبرہ، مَفْعولِی مبرہ، مَفْعولِی مبرہ) وہ فعل جو فعل کے آکر ہونے پر دلالت کرے جیسے برسی نے آری سے لڑائی پیری، میں آری۔
مُفْعود - (مُفْعود، مَفْعود، مَفْعود) ۱۔ پیدا ہوا۔ ۲۔ ناپید۔ ۳۔ نادر۔
مُفْعود الخیر - (مُفْعود الخیر، مَفْعود الخیر، مَفْعود الخیر) وہ شخص جس کی کوئی خیر نہ ہو۔ لاپتہ۔
مُفْعود ہونا - (مُفْعود ہونا، مَفْعود ہونا، مَفْعود ہونا) ۱۔ ہوا۔ ۲۔ ناپید ہونا۔
مُفْعَل - (مُفْعَل، مَفْعَل، مَفْعَل) ۱۔ کڑک۔ ۲۔ صف (مفعل) کرنے والا۔ سوتلے والا۔ ۳۔ مٹا کر۔

مُفْعَل - (مُفْعَل، مَفْعَل، مَفْعَل) (Muffler) ۱۔ مٹا کر۔ ۲۔ گونہند۔ ۳۔ رولر۔
مُغْضِب - (مُغْضِب، مَفْغِب، مَفْغِب) صف (مغضب)۔ کھٹکال۔ محتاج۔ تادار۔ فقیر۔ بے زر۔

مُغْضِب بناوینا - (مُغْضِب بناوینا، مَفْغِب بناوینا، مَفْغِب بناوینا) ۱۔ محاورہ غریب کر دینا۔ محتاج کر دینا۔
مُغْضِب سے سوال صراحت ہے - (مُغْضِب سے سوال صراحت ہے، مَفْغِب سے سوال صراحت ہے، مَفْغِب سے سوال صراحت ہے) ۱۔ شل۔ غریب کو تکلیف دینا۔
ناپاگز ہے - (ناپاگز ہے، مَفْغِب ہے، مَفْغِب ہے) ۱۔ محتاج۔ کھٹکال۔

مُغْضِب کا مال ہے - (مُغْضِب کا مال ہے، مَفْغِب کا مال ہے، مَفْغِب کا مال ہے) ۱۔ نہایت مال ہے۔ ۲۔ نازاں سامان ہے۔
مُغْضِب بیک - (مُغْضِب بیک، مَفْغِب بیک، مَفْغِب بیک) ۱۔ نہایت بیک۔ ۲۔ شکستہ۔ جھوکا نہایت محتاج۔ کھٹکال۔
مُغْضِبِی - (مُغْضِبِی، مَفْغِبِی، مَفْغِبِی) ۱۔ صف (مغضب)۔ ۲۔ غریب۔ محتاج۔ ۳۔ محتاج ہو جانا۔
مُغْضِبِی آنا - (مُغْضِبِی آنا، مَفْغِبِی آنا، مَفْغِبِی آنا) ۱۔ محتاج ہو جانا۔
مُغْضِبِی چھانا - (مُغْضِبِی چھانا، مَفْغِبِی چھانا، مَفْغِبِی چھانا) ۱۔ محتاج ہو جانا۔
مُغْضِبِی میں الٹا کیلا - (مُغْضِبِی میں الٹا کیلا، مَفْغِبِی میں الٹا کیلا، مَفْغِبِی میں الٹا کیلا) ۱۔ محتاج ہو جانا۔
مُغْضِبِی میں شکستہ - (مُغْضِبِی میں شکستہ، مَفْغِبِی میں شکستہ، مَفْغِبِی میں شکستہ) ۱۔ محتاج ہو جانا۔
مُغْضِبِی میں شوق نہا - (مُغْضِبِی میں شوق نہا، مَفْغِبِی میں شوق نہا، مَفْغِبِی میں شوق نہا) ۱۔ محتاج ہو جانا۔
مُغْضِبِی میں میں جھاک کیبند - (مُغْضِبِی میں میں جھاک کیبند، مَفْغِبِی میں میں جھاک کیبند، مَفْغِبِی میں میں جھاک کیبند) ۱۔ محتاج ہو جانا۔
مُغْضِبِی میں میں میں جھاک کیبند - (مُغْضِبِی میں میں میں جھاک کیبند، مَفْغِبِی میں میں میں جھاک کیبند، مَفْغِبِی میں میں میں جھاک کیبند) ۱۔ محتاج ہو جانا۔
مُغْضِبِی میں میں میں جھاک کیبند - (مُغْضِبِی میں میں میں جھاک کیبند، مَفْغِبِی میں میں میں جھاک کیبند، مَفْغِبِی میں میں میں جھاک کیبند) ۱۔ محتاج ہو جانا۔

مغلوبک الجبال - (ع-ف-صفت) تباہ حال، خستہ حال۔
 مفوض - مفوضہ - (رم-فوز، فرض، رقم-فوز) - (ع-صفت) سپرد
 کیا ہوا، سونپا ہوا۔ امانت رکھا ہوا۔
 مفوض - (رم-فوز، فرض) (ع-صفت) سپرد کرنے والا۔ سونپنے والا۔
 مفہوم - (مفت، بزم) (ع-صفت) سمجھا گیا۔ جو سمجھ میں آئے۔ (۲۰)
 (۱۶) مذہب فشاہ - ارادہ - منصوبہ۔
 مفہوم، کوٹا - (۱۶) مص مرکب سمجھا جانا، خیال میں آنا۔ معلوم ہونا۔
 مفید - (رم-نید) (ع-صفت) فائدہ مند۔ سود مند۔ فائدہ دینے والا۔
 مفید ٹرنا - (۱۶) محاورہ کارآمد ہونا۔ موافق ہونا۔
 مفید مطلب - (۱۶) (صفت) موافق یا مناسب حال۔
 مفید فیض - (رم-فیض) (ع-صفت) فیض پہنچانے والا۔ فائدہ رساں۔

مقابلہ - (رم-قائمت) (ع-۱-۱) مذہب قتل کشت خون۔ خون ریزی۔
 مقادیر - (رم-قائذیر) (ع-۱-۱) مذہب (مقدار کی جمع) انما سے۔ تعداد شمار۔
 مقادیر العباد - (ع-۱-۱) مذہب (مشت) بہت دور کے فاصلے۔
 مقادیر غیر متقابلہ - (ع-۱-۱) مذہب (مشت) مجرد مقابلہ میں وہ مقادیر جن
 کے مجرد مختلف ہوں۔
 مقادیر متقابلہ - (ع-۱-۱) مذہب (مشت) مجرد مقابلہ میں وہ مقادیر جن کے مجرد
 یکساں اور اعداد مختلف ہوں۔
 مقادیر مجہولہ - (ع-۱-۱) مذہب (مشت) غیر معلوم مقادیر۔
 مقادیر معلومہ - (ع-۱-۱) مذہب (مشت) وہ مقادیر جو معلوم ہوں
 مقاربت - (رم-قارر، رت) (ع-۱-۱) مذہب (مشت) قریب آنا، قریب، قربت
 نزدیکی، محبت، ہم بستری۔
 مقارب - (رم-قارر، رت) (ع-۱-۱) مذہب (صفت) نزدیک۔ قریب، درمیان
 آنا۔ دوران۔

م-ق

مقابر - (رم-قابر) (ع-۱-۱) مذہب مقبرہ کی جمع۔ بہت سے مقبرے
 یا قبوے۔
 مقابل - (رم-قائبن) (ع-۱-۱) صفت سامنے والا۔ رو رو، دشمن۔ مخالف
 حرکت، برابر۔ سادی، ہم، نظیر۔ مثل۔ مانند۔ مطابق۔
 مقابل (ہونا) ہو جانا - (۱۶) محاورہ لڑنے کو سامنے کھڑا ہو جانا۔ بھڑ
 جانا۔ سامنا کر بیٹھنا۔
 مقابلہ - (رم-قائب، ل) (ع-۱-۱) مذہب آنا سامنا۔ مٹھ بھڑ (۲۰)
 برابر، ہم بستری، مخالفت، ضد۔ اختلاف (رم، پڑتال
 جاتج (۵) جنگ۔ جدل۔ لڑائی (۶) بحث۔ تکرار (۷) اصطلاح
 نجوم میں ایک ستارے کی دوسرے ستارے کی طرف ایک آہی
 درجے کے فاصلے سے نظر۔ ایک ستارے کا دوسرے ستارے
 کے سامنے ہونا۔

مقاربت - (رم-قارر، رت) (ع-۱-۱) مذہب (مشت) قریب آنا، قریب، قربت
 باس ہونا۔ اکٹھا ہونا۔
 مقاصد - (رم-قاصد) (ع-۱-۱) مذہب مقصد کی جمع۔ مطالب، مدعا
 اغراض۔ مرادیں۔ خواہش۔ ارادہ۔
 مقاطع - (رم-قائطع) (ع-۱-۱) مذہب کاٹنے والا۔ قطع کرنے والا۔ کچی چیز
 کا اجاڑے اور ٹھیکے پر لینے والا۔
 مقطوعہ - (رم-قائطع) (ع-۱-۱) مذہب کاٹنا۔ تعلق نہ رکھنا۔ علیحدہ
 علیحدہ کرنا۔
 مقطوعہ مجموعی - (ع-۱-۱) مذہب بھوک بڑھنا۔
 مقال - (رم-قائطع) (ع-۱-۱) مذہب گفتگو۔ بات چیت۔ کلام۔
 مقالہ - (رم-قائطع) (ع-۱-۱) مذہب کہی ہوئی بات۔ قول۔ مقولہ۔ (۲) تحریر
 (۳) تقلیدس کاہر حصہ جس میں تقلیدس کے دعوے۔ اُن
 کے ثبوت اور شکلیں درج ہوں، رقم، کتاب کا باب۔ حصہ۔
 فصل۔ جمع، مقالات۔

مقابلہ ہونا - (۱۶) محاورہ شرط باندھ کر مقابلہ کرنا۔
 مقابلہ کرنا - (۱۶) محاورہ فوج کا لڑنے کے لیے سامنے آنا، لڑنے کو کھڑا
 ہونا۔ سامنے آنا، مزاحم ہونا، سیدراہ ہونا۔ معترض ہونا۔
 مقابلہ کرنا - (۱۶) محاورہ (مطابقت کرنا، لڑائی کرنا، جنگ کرنا،
 بحث کرنا، تکرار کرنا، سامنے آنا، برابری کرنا، دھاکتاجی
 کرنا، (۶) جلیج کرنا۔ پڑتال کرنا، مخالفت کرنا، ضد
 کرنا، (۸) دھڑا باندھنا۔
 مقابلے پر کھڑا ہونا - (۱۶) محاورہ (یکشن میں کسی امیدوار ممبر کے ساتھ
 مقابلہ کرنا، لڑائی پر آمادہ ہونا۔
 مقابلہ - (رم-قائطع، رم-قائطع) (ع-۱-۱) مذہب مقوی سے بنایا ہوا سنگار
 آرائش کا ضد و فوج۔
 مقابلہ - (رم-قائطع) (ع-۱-۱) مذہب کسی کے ساتھ لڑنے والا۔ مقابلہ پر
 قتل کرنے والا۔

مقالہ اقتتاجیمہ - اخبار کا لڈنگ آرٹیکل۔ ڈیڑے کا حصہ۔ شروع کا مفہوم۔
 مقاصم - (رم-قائم) (ع-۱-۱) مذہب ٹھہرنے کی جگہ۔ مکان، مسکن، ٹھکانہ۔ گھر (۲)
 منزل۔ آہرنے کی جگہ۔ (۳) محل، محل، بیت۔ وقت، ہم، ہوسستی میں پردہ
 سرور (۵) کھڑا ہونا، کھڑے ہونے کی جگہ، جمع، مقامات۔
 مقام ابراہیم - (ع-۱-۱) مذہب بیت اللہ میں اُس جگہ کا نام جہاں حضرت
 ابراہیم نے نماز ادا کی تھی۔
 مقام بولنا - (۱۶) محاورہ (ٹھہرنے کا حکم دینا)
 مقام دینا - (۱۶) محاورہ (تذیبت کو جانا۔ قائم پڑنے کے لیے کسی کے گھر
 جانا، (۲) کھڑے کو آرام دینا۔
 مقام کرنا - (۱۶) محاورہ (ٹھہرنا۔ آڑنا۔
 مقام گفتگو - (ع-۱-۱) مذہب (مصلحت) (ع-۱-۱) مذہب (مصلحت) (ع-۱-۱) مذہب (مصلحت) (ع-۱-۱)
 مقام محمود - (ع-۱-۱) مذہب (مصلحت) (ع-۱-۱) مذہب (مصلحت) (ع-۱-۱) مذہب (مصلحت) (ع-۱-۱)
 اعلیٰ درجہ، اُس مقام کا نام جہاں شب معراج آنحضرت مسلم

ہونے تھے۔

مقام مصلیٰ - (ع-۱-۶) مذم کعبہ شریف میں وہ مقام جہاں حضرت ابراہیمؑ اپنے نماز پڑھتی تھی۔

مقام معین - (ع-۱-۶) مذم مقرر جگہ۔ خاص جگہ۔

مقام ہمو - (ع-۱-۶) مذم سننے کی جگہ۔

مقام آہوتا - (ع-۱-۶) مذم محاورہ، ٹھہرنا۔ قیام ہونا۔

مقامات - (ع-۱-۶) مذم مقام کی جمع (۲) احکام، قواعد (۳) علم موسیقی کے بارے پر۔

مقام مرہم - (ع-۱-۶) مذم قمار باز۔ جواری۔

مقام مرت - (ع-۱-۶) مذم قمار بازی۔ جو بازی۔

مقامی - (ع-۱-۶) مذم قہر، آبرو، ساکن۔ قائم (۲) کسی خاص جگہ سے متعلق (۳) لوکل۔

مقامی رنگ - (ع-۱-۶) مذم کسی مقام کا انداز۔ وہ انداز جو کسی زمین، جگہ یا علاقے سے منسوب ہو۔

مقاومت - (ع-۱-۶) مذم قیامت، مقابلہ، برابری۔

مقبرہ - (ع-۱-۶) مذم قبر کی جگہ۔ مدفن، درگاہ۔ مزار، گور۔

مقبول - (ع-۱-۶) مذم عمارت جو تہہ پر بنائی جائے (مقابلہ)۔

مقبول - (ع-۱-۶) مذم قبول کرنے والا (۲) اقبال مند۔ دولت مند۔ صاحب اقبال۔ بھاگ وان (۳) روئید ہونے والا۔

مقبول - (ع-۱-۶) مذم قبول کیا گیا۔ روئید کیا گیا۔ منہ چرٹھا۔

عزت والا۔

مقبوض - (ع-۱-۶) مذم قبضہ کیا گیا۔ بچھا گیا۔ قبضہ میں لیا گیا۔

مقبوضہ - (ع-۱-۶) مذم قبضہ کیا گیا۔ وہ چیز جس پر قبضہ کیا جائے۔ جمع۔ مقبوضات۔

مقبول - (ع-۱-۶) مذم بڑا، قبول کیا گیا۔ مانا گیا۔ پسندیدہ۔ برگزیدہ۔ پیارا۔ محبوب۔ جمع۔ مقبولین۔ مقبولان۔

مقبول بارگاہ - (ع-۱-۶) مذم صفت خدا کا پیارا۔ محبوب الہی۔

مقبول ہونا - (ع-۱-۶) مذم مص مرکب قبول ہونا۔ پسندیدہ ہونا۔ منظور ہونا۔

مقبولیت - (ع-۱-۶) مذم بڑی۔ بڑی۔ بڑی۔ قبولیت۔ اجابت۔ منظوری۔

مقبول - (ع-۱-۶) مذم قبول کرنے والا۔ روٹنی لینے والا۔ دوسرے شخص سے فائدہ اٹھانے والا۔

مقبول - (ع-۱-۶) مذم قبول کرنے والا۔ فائدہ اٹھایا گیا۔

مقبول - (ع-۱-۶) مذم قبول کرنے والا۔ فائدہ اٹھایا گیا۔

مقبول - (ع-۱-۶) مذم قبول کرنے والا۔ فائدہ اٹھایا گیا۔

مقتضا - (ع-۱-۶) مذم تقاضا کیا گیا، مجازاً۔ مطلب۔ مراد۔

مقتضا - (ع-۱-۶) مذم تقاضا کیا گیا، مجازاً۔ مطلب۔ مراد۔

مقتضا - (ع-۱-۶) مذم تقاضا کیا گیا، مجازاً۔ مطلب۔ مراد۔

مقتضا - (ع-۱-۶) مذم تقاضا کیا گیا، مجازاً۔ مطلب۔ مراد۔

مقتضا - (ع-۱-۶) مذم تقاضا کیا گیا، مجازاً۔ مطلب۔ مراد۔

مقتضا - (ع-۱-۶) مذم تقاضا کیا گیا، مجازاً۔ مطلب۔ مراد۔

مقتضا - (ع-۱-۶) مذم تقاضا کیا گیا، مجازاً۔ مطلب۔ مراد۔

مقتضا - (ع-۱-۶) مذم تقاضا کیا گیا، مجازاً۔ مطلب۔ مراد۔

مقتضا - (ع-۱-۶) مذم تقاضا کیا گیا، مجازاً۔ مطلب۔ مراد۔

مقتضا - (ع-۱-۶) مذم تقاضا کیا گیا، مجازاً۔ مطلب۔ مراد۔

مقتضا - (ع-۱-۶) مذم تقاضا کیا گیا، مجازاً۔ مطلب۔ مراد۔

مقتضا - (ع-۱-۶) مذم تقاضا کیا گیا، مجازاً۔ مطلب۔ مراد۔

مقتضا - (ع-۱-۶) مذم تقاضا کیا گیا، مجازاً۔ مطلب۔ مراد۔

مقتضا - (ع-۱-۶) مذم تقاضا کیا گیا، مجازاً۔ مطلب۔ مراد۔

مقتضا - (ع-۱-۶) مذم تقاضا کیا گیا، مجازاً۔ مطلب۔ مراد۔

مقتضا - (ع-۱-۶) مذم تقاضا کیا گیا، مجازاً۔ مطلب۔ مراد۔

مقتضا - (ع-۱-۶) مذم تقاضا کیا گیا، مجازاً۔ مطلب۔ مراد۔

مقتضا - (ع-۱-۶) مذم تقاضا کیا گیا، مجازاً۔ مطلب۔ مراد۔

مقتضا - (ع-۱-۶) مذم تقاضا کیا گیا، مجازاً۔ مطلب۔ مراد۔

مقتضا - (ع-۱-۶) مذم تقاضا کیا گیا، مجازاً۔ مطلب۔ مراد۔

مقتضا - (ع-۱-۶) مذم تقاضا کیا گیا، مجازاً۔ مطلب۔ مراد۔

مقدّم جملگانہ ۱۶- محاورہ تقدیر جگانا۔ مجھے دن آنا قسمت باور ہونا۔
 مقدّم ڈھیلوں سے چھوڑنا ۱۷- محاورہ کنہا ہے بد قسمت ہے۔
 مقدّم راستے پر آنا ۱۷- محاورہ قسمت سیدھی ہو جانا۔ اقبال کے دن آنا۔
 مقدّم سامنے ہونا ۱۶- محاورہ قسمت موافق ہونا۔ طالب باور ہونا۔
 مقدّم سے زور نہیں چلنا ۱۷- محاورہ تقدیر کے سامنے تدبیر کارگر نہیں ہوتی جو قسمت میں ہے ہو کر رہتا ہے۔
 مقدّم سو جانا ۱۷- محاورہ تقدیر کا برخلاف ہو جانا۔
 مقدّم سیدھا ہونا ۱۷- محاورہ قسمت موافق ہونا۔
 مقدّم کا بیخ ۱۶- مذم تقدیر کا بیخ۔
 مقدّم کا سحر ۱۶- مذم قسمت کی کدیں۔
 مقدّم کا ٹروٹ لینا ۱۶- محاورہ تقدیر بدلنا۔ اقبال مندی کا زانا آنا۔
 مقدّم کا لکھا ۱۶- مذم لاشعہ تقدیر۔
 مقدّم کا ہمیشہ ۱۶- صفت مذم قسمت۔ بد نصیب۔
 مقدّم کے آگے کسی کی نہیں چلتی ۱۶- مثل لاشعہ تقدیر کے خلاف کسی کا زور نہیں چلنا۔
 مقدّم لڑنا ۱۶- محاورہ قسمت موافق ہونا۔ اقبال باور ہونا۔
 مقدّم میں لکھا ہونا ۱۶- محاورہ لاشعہ تقدیر ہونا۔
 مقدّم نہیں ہونا ۱۶- محاورہ تقدیر میں ہونا۔
 مقدّم ت - رفق - و - زرت - ع - ف - صفت قدرت - طاقت - قوت (۲) بساط - حیثیت۔
 مقدّم س - رفق - و - س - ع - ف - مذم پاک جگہ - پاک جیسے بیت المقدس جمع مقدس۔
 مقدّم س - رفق - و - س - ع - صفت پاک کیا گیا (۲) پاک معصوم بے گناہ (۳) بھنگ - پارسا - فرشتہ نصلت۔
 مقدّم س کتاب ۱۶- ع - صفت پاک کتاب آسمانی کتاب جیسے قریت زبور - انجیل - قرآن مجید۔
 مقدّم ص - رفق - و - س - ع - صفت پاک جیسے مقامات مقدّم (۲) صفت پاک عورت۔
 مقدّم - رفق - و - س - ع - مذم آگہ - درود - تشریف آوری - قدم آریج فرماں - ردیف افزوی (۲) وہ جگہ جہاں سے کئی آئے (۳) پاؤں رکھنے کی جگہ۔
 مقدّم - رفق - و - س - ع - صفت ابرو کو آگے جانے والا پہاڑ (۲) پیش کرنے والا خدا تعالیٰ کا ایک نام۔
 مقدّم - رفق - و - س - ع - صفت پیش کیا گیا - آگے کیا گیا (۲) پہلا - گلا - گزشتہ - سابقہ - قدیم (۳) اعلیٰ - اودنجا - معزز - برتر - بزرگ (۴) واجب - فرض - ضروری - لازم - مناسب (۵) آگے کا حصہ (۵) گاؤں کا نمبر دار - چودھری - سرکردہ۔ (۶) زمین داروں میں ایک عزت کا لقب (۶) حساب پہلی

رقم (۹) تصابوں کی اصطلاح میں ران کا وہ حصہ جو چپ سے ملتی ہے (۱۱) منلق میں شرط کا پہلا جز۔ قضیہ (۱۱) نجوم کی اصطلاح میں نمبر کی جیمسوی منزل۔
 مقدّم جاننا کسی کام کا سب سے اول خیال رکھنا۔ ترجیح دینا (۲) اچھا سمجھنا۔ واجب جاننا۔ لازم قرار دینا۔
 مقدّم جاننا (۲) سمجھنا۔ (۱۶) محاورہ زیادہ ضروری جاننا۔ کسی کام کو اول خیال کرنا۔
 مقدّم ہونا ۱۶- محاورہ پہلے ہونا۔ کسی کام کا زیادہ ضروری ہونا۔
 مقدّم سے ترجیح ہونا۔
 مقدّمات - رفق - و - س - ع - ف - صفت - معاملات۔
 مقدّمہ - رفق - و - س - ع - ف - صفت - معاملات۔
 کادہ حصہ جو آگے بھیج دیا جائے۔ ہر اول (۳) دیا چہ - تمہید۔
 مقدّمہ الجیش (۲) - مذم وہ لشکر جو آگے بھیج دیا جائے۔ ہر اول فوج (۲) پیش خیمہ (۳) فوج کا حاکم اعلیٰ۔ سپہ سالار۔ سرغنہ۔
 مقدّمہ - رفق - و - س - ع - ف - صفت - معاملات۔
 واقعہ (۲) معاملہ موقع (۲) بات - مسئلہ۔
 مقدّمہ اٹھانا ۱۶- محاورہ جھگڑا کرنا۔
 مقدّمہ باز - ع - ف - صفت وہ شخص جسے مقدّم سے لڑنے کا بہت شوق ہو۔
 مقدّمہ بازی - ع - ف - صفت (۲) عدالتی چاہہ چھٹی عدالت میں مقدمہ لڑنا۔
 مقدمہ بنانا ۱۶- محاورہ جھگڑا دعویٰ تیار کرنا۔
 مقدمہ جیتنا ۱۶- محاورہ عدالت سے دعوے میں کامیاب ہونا۔
 مقدمہ داخل دفتر ہونا ۱۶- محاورہ مقدمہ کی کارروائی بند ہونا۔
 مقدمہ قابل دست اندازی پولیس - ع - ف - صفت وہ مقدمہ جس میں پولیس آفسر بفر وارنٹ کے خلاف کرے۔
 مقدمہ کھڑا کرنا ۱۶- محاورہ جھگڑا اٹھانا۔ نفاذ پیدا کرنا۔
 مقدمہ لڑنا ۱۶- محاورہ نفاذ کرنا۔ دعویٰ پیش کرنا۔
 مقدمہ مرتب کرنا ۱۶- محاورہ مقدمہ کو ترتیب دینا۔
 مقدّمی - رفق - و - س - ع - ف - صفت مقدم کا پیشہ نمبر داری کا عہدہ (۲) مقدم کے حقوق (۳) مقدم کے منلق۔
 مقدّم و تر - رفق - و - س - ع - ف - صفت قدرت - طاقت - قوت۔ نند - نلی - شکستی - پوتا (۲) حوصلہ - تاب - مجال (۳) حیثیت - مجال - نگہداشت - قابلیت - سمائی (۴) پس - قابو - دسترس - اختیار (۵) رسائی - پہنچ - وسیلہ - ذریعہ - بہمارا (۶) برأت - دلیری (۷) دولت - ثروت - مایہ۔
 مقدّم و بھر (کتاب) - (۱) تابع فعل (۲) جہاں تک ممکن ہو۔ حدیث طاقت کے مطابق۔

صلی اللہ علیہ وسلم۔
 مقصود۔ (مق. مقصود) (ع. صفت) کم کیا گیا، چھوٹا کیا گیا۔
 مقصودہ۔ (ع. صفت) مقصود کی ثابت ۲، مسجد میں امام کے کوشے
 ہونے کی جگہ۔
 مقطر۔ (م. ق. قط، ظ، ا. ع. صفت) چپکایا ہوا، قطرہ قطرہ کر کے چپکایا اور
 صاف کیا ہوا۔
 مقطوع۔ (م. ق. قط، ل. ع. ا. ع. صفت) غزل یا قصیدے کا آخری شعر جس میں شاعر
 کا تخلص آتا ہے۔
 مقطوع کا بند۔ (ع. ا. ع. صفت) نظم کا آخری بند جس میں شاعر کا تخلص ہوتا ہے (۲) وہ خاص بات
 جس کا کتبنا یا لکھنا اصل مقصود ہو۔
 مقطوع۔ (م. ق. قط، ل. ع. ا. ع. صفت) تراشا ہوا، چھانٹا ہوا۔ تراش
 خراش سے آراستہ کیا ہوا۔ (۲) ہنڈب۔ سنجیدہ۔ شائستہ (۳)
 قابل اعتبار۔ مستند۔
 مقطوع وارضی۔ (ع. ا. ع. صفت) شرع کے مطابق تراشی ہوئی وارضی۔
 مقطوع صورت۔ (ع. ا. ع. صفت) ہنڈب شکل۔
 مقطعات۔ (م. ق. قط، ط، م. ا. ع. صفت) کپڑے کے ٹکڑے، کتڑیں۔
 دلہنی کپڑے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے (۲) بحر بزم کے اشعار۔
 سبک وزن اشعار (۳) وہ حرف جو قرآن شریف کی بعض سورتوں کے
 شروع میں آتے ہیں جیسے الہدین، حم۔
 مقعد۔ (م. ق. قط، ل. ع. ا. ع. صفت) بیٹھے کی جگہ، ڈبڑ، گول۔
 مقعد۔ (م. ق. قط، ل. ع. ا. ع. صفت) گہرا، عمیق (۲) گولھا۔
 مقفل۔ (م. ق. قط، ل. ع. ا. ع. صفت) قفل لگا ہوا، تالا پڑا ہوا۔
 مقفیل کرنا۔ قفل لگانا۔ تالا لگا کر بند کرنا۔
 مقفلی۔ (م. ق. قط، ل. ع. ا. ع. صفت) قافیہ کیا گیا۔ قافیہ دار۔ مستبح۔
 مقلیب۔ (م. ق. قط، ل. ع. ا. ع. صفت) بدلنے والا، پلٹنے والا۔
 مقلیب القلوب۔ دلوں کو پھیر دینے والا، خدائے تعالیٰ۔
 مقفل۔ (م. ق. قط، ل. ع. ا. ع. صفت) تقدیر کرنے والا۔ پیر۔ مرید۔ معتقد
 (۲) نقال۔ مسخرہ (۳) وہ مسلمان جو چاروں اماموں کو ماننا ہو۔
 مقلدین۔
 مقلوب۔ (م. ق. قط، ل. ع. ا. ع. صفت) چٹا کیا گیا، مارا گیا (۲) علم بیان کی ایک
 صنعت کا نام جس کی عبارت سیدھی الٹی کیساں پڑھی جائے
 جیسے شاہ ش۔
 مقلوب بعض۔ (ع. صفت) وہ صنعت مقلوب جس میں کہیں کے حرف
 کہیں مل کر عبارت موزوں کر لیں۔ ارم سے سام
 مقلوب کل۔ (ع. صفت) وہ صنعت مقلوب جس میں حرفت کی تبدیلی بالترتیب ہو
 مقلوب مستوی۔ (ع. صفت) وہ صنعت مقلوب جس میں پورے لفظ یا کلام کو آٹ
 کر پڑھ سکیں جیسے ورد، تلق، انازاں، ساس۔
 مقناطیس۔ (م. ق. قط، ل. ع. ا. ع. صفت) ایک قسم کا پتھر جو لوہے کو اپنی طرف کھینچتا
 ہے۔ چمچک پتھر، آہن ٹراہ۔

مقناطیسی۔ (ع. ا. ع. صفت) مقناطیس سے منسوب (۲) پرکشش۔
 مقناطیسیت۔ (ع. ا. ع. صفت) مقناطیسی کشش (۲) کشش۔ دلکشی۔
 مقناطی۔ (Magnetize) (ع. صفت) مقناطیس
 خاصیت پیدا کرنا۔ مقناطیسی اثر ڈالنا۔
 مقناؤ۔ (ع. ا. ع. صفت) مقناطیسی خاصیت پیدا کرنے کا عمل۔
 مقناطیس عمل۔ (ع. ا. ع. صفت) (Magnetization)
 مقنغہ۔ (م. ق. قط، ل. ع. ا. ع. صفت) مقنغہ (م. ق. قط، ل. ع. ا. ع. صفت) وہ باریک کپڑا جو
 دولہن کے سہرے کے نیچے باندھے ہیں (۲) باریک پلاہ جو کونوں پر
 کے لیے چہرے پر ڈال لیتی ہیں۔
 مقنغین۔ (م. ق. قط، ل. ع. ا. ع. صفت) قانون بنانے والا۔ قانون بنانے والا۔
 مجمع۔ مقنغین۔
 مقنغہ۔ (م. ق. قط، ل. ع. ا. ع. صفت) قانون ساز اسمی۔ (ع. ا. ع. صفت)
 (Legislative)
 مقنوز۔ (م. ق. قط، ل. ع. ا. ع. صفت) دھاگا، ڈوری۔ رستی (۲) جہاز کارستا
 کشتی کی رستی۔
 مقنوس۔ (م. ق. قط، ل. ع. ا. ع. صفت) کمان کی طرح خم کھائے ہوئے۔
 مقنوس۔ (م. ق. قط، ل. ع. ا. ع. صفت) مصر کے بادشاہ کا نام جس کے پاس پیغمبر مسلم
 نے نبیج مکہ کے بعد سفیر بھیجا تھا۔
 مقنولہ۔ (م. ق. قط، ل. ع. ا. ع. صفت) بات کہادت۔ قول بچن۔ ضرب اشل۔
 مقنوم۔ (ع. صفت) قیمت مقرر کرنے والا، سیدھا رکھنے والا۔
 مقنوی۔ (م. ق. قط، ل. ع. ا. ع. صفت) قوت لینے والا۔ قوت بستنے والا۔
 مقنوی۔ (م. ق. قط، ل. ع. ا. ع. صفت) قوی کیا گیا، مضبوط کیا گیا (۲) چٹھا۔ (ع. ا. ع. صفت)
 دینی کا نا جس میں ہی کا خدات رکھتے ہیں۔
 مقنور۔ (م. ق. قط، ل. ع. ا. ع. صفت) تہر کیا گیا، جس پر غصہ ہو، جمع۔ مقنورین۔
 مقنوی۔ (م. ق. قط، ل. ع. ا. ع. صفت) ہٹانے والی چیز۔
 مقنویس۔ (م. ق. قط، ل. ع. ا. ع. صفت) وہ آکر جس سے کسی چیز کا اندازہ
 کریں۔ پیمانہ۔
 مقنویس الحرات۔ (ع. ا. ع. صفت) وہ آکر جس سے گرمی کا اندازہ کریں
 مھر یا میٹر۔
 مقنویس اللبن۔ (ع. ا. ع. صفت) دودھ جانچنے کا آلہ۔ (ع. ا. ع. صفت)
 (Lactometer)
 مقنویس الما۔ (ع. ا. ع. صفت) وہ آکر جس سے پانی کے اتار چڑھاؤ کا اندازہ
 کیا جاتا ہے۔ پیمانہ۔
 مقنویس المطر۔ (ع. ا. ع. صفت) بارش ناپنے کا آلہ۔
 مقنویس المومم۔ موسم کے تغیر و تبدل معلوم کرنے کا آلہ۔
 مقنویس الہوا۔ (ع. ا. ع. صفت) وہ آکر جس سے ہوا کا دباؤ، رطوبت اور طوفان کا
 حال معلوم ہوتا ہے۔ (Barometer)
 مقنویت۔ (م. ق. قط، ل. ع. ا. ع. صفت) روزی دینے والا۔ قوت (خوراک بخشنے والا۔
 (ع. ا. ع. صفت) خوراک بخشنے والا۔
 مقنود۔ (م. ق. قط، ل. ع. ا. ع. صفت) تقدیر کیا گیا، قیدی۔ اسیر۔ باند۔

مقیّش - (مق، قیش، ۱۶- ۱۷) - آذر - مزد و مٹ (سونے چاندی کے تار۔ سونے چاندی کے تاروں کا بنا ہوا پتلا جیسے ذری - ہادہ - الطلس۔ تمامی - ماش -)

مقیّشی - (مق، قیش، ۱۶) - آذر - صفت (سونے چاندی کے تاروں کا زینت کا - ہاواے کا -)

مقیّش ڈاڑھی - (مق، قیش، ۱۶) - مٹ (زردی مائل سفید ڈاڑھی - خوبصورت)

مقیّشی گورھو - (مق، قیش، ۱۶) - مٹ (ایک قسم کا گوہر جو تاروں کو موڑ کر بنایا جاتا ہے -)

مقیّم - (مق، قیّم، ۱۶) - صفت (قیام کرنے والا - ٹھہرنے والا - فروکش ہونے والا - رہنے والا (۲۲)، قیام - قیام پذیر (۳)، وہ شخص جو کلاں اور باغیانوں کی سبزی اور پھل بھول وغیرہ بطور راستہ نیلام کرتا ہے - جہاں مقیّمان -)

مقیّم گونا - (۱۶) - مص مرکب (قیام کرنا - ٹھہرنا - رہنا - بسنا - آنا -)

م۔ ک

مک - (۱- ۵) - مٹ (مک کا مخفف -)

مک - (مک، ۱۶) - مٹ (مک کا) - (۱۶) - مٹ (بڑی جوار - مکئی -)

مک - (مک، ۱۶) - مٹ (گولنا - مٹ - ڈگ - بند ٹھہری جس سے حرب لگائی جاسکے -)

مک جلا نا - (۱۶) - محاورہ (مٹے سے مارنا -)

مک چلنا - (۱۶) - محاورہ (مٹے سے مار لینا ہوتا ہے -)

مک لگانا - (۱۶) - محاورہ (گولنا مارنا - ڈگ جرنانا -)

مک - (ق) - گونگا -)

مک برہ - (مک - کم - ب - برہ، ۱۶) - مٹ (بڑا بھاتا - شہی - غرور - گوند (۲، جھگڑا - قصیر - لڑائی (۳)، مقابلہ - محاورہ -)

مکاتب - (مک - کتاب، ۱۶) - مٹ (مکتب کی جمع - مدرسے - درس گاہیں -)

مکاتبات - (مک - کتابت، ۱۶) - مٹ (مکاتب کی جمع - خطوط - خطبیاں -)

مکاتبت - (مک - کتابت، ۱۶) - مٹ (مکاتب کی جمع - خطوط - خطبے -)

مکاتب - (مک - کتابت، ۱۶) - مٹ (مکاتب کی جمع - خطبے -)

مکاتب - (مک - کتابت، ۱۶) - مٹ (مکاتب کی جمع - خطبے -)

مک کار - (مک - کار، ۱۶) - صفت (مک کرنے والا - فریبی - دغا باز - دھوکے باز - عیار -)

مک کارم - (مک - کار، ۱۶) - مٹ (مک کرنے کی جمع - جزدگیاں - خویاں نکاسی اچھے اوصاف - قابل تقلید کام -، لاف زنی - جہر بایاں -)

مک کارہ - (مک - کارہ، ۱۶) - مٹ (مک کی جمع - ناپسندیدہ چیزیں - قابل کراہت باتیں -)

مکارہ - (مک - کارہ، ۱۶) - صفت (مکار عورت - فریبی -)

مکاری - (مک - کاری، ۱۶) - مٹ (دغا بازی - فریب کاری - عیاری -)

مکاسب - (مک - کاسب، ۱۶) - مٹ (مکاسب کی جمع - ہنر - پیشہ -)

مکاشفہ - (مک - کاشف، ۱۶) - مٹ (مکاشفہ کی جمع - انکشاف - ماز - کزنا - اظہار - افشا - امور غیبی کا انکشاف -)

مکاشفہ - (مک - کاشف، ۱۶) - مٹ (مکاشفہ کی جمع - انکشاف - امور غیبی کا معلوم ہوجانا - کشف - کرامات - جہاں مکاشفات -)

مکافات - (مک - کافات، ۱۶) - مٹ (مکافات کی جمع - مکاشفات - بدر - تاوان (۲)، بلاش - سزا - انتقام -)

مکافات کوہ پستینا - (۱۶) - محاورہ (مکے کی سزا ملنا -)

مکاکم - (مک - کاکم، ۱۶) - مٹ (مکاکم کی جمع - مکاتبات -)

مکان - (مک - کان، ۱۶) - مٹ (مکان کی جمع - مکان -)

مکان بدلنا - (۱۶) - محاورہ (مکان تبدیل کرنا - ایک گھر سے دوسرے گھر میں منتقل ہونا -)

مکان بیٹھنا - (۱۶) - محاورہ (مکان بیٹھ جانا - مکان گرجانا -)

مکان دار - (۱۶) - صفت (مکان مالک - گھر والا -)

مکان دیکھنا - (۱۶) - محاورہ (خریدنے یا کرکے پرینے کے لیے گھر کا معائنہ کرنا - مکان تلاش کرنا -)

مکان دینا - (۱۶) - محاورہ (گھر کرکے پر دینا - گھر فروخت کر دینا -)

مکان ضرور - (۱۶) - صفت (مکان کی ضرورت -)

مکان لینا - (۱۶) - محاورہ (گھر کرکے لینا - گھر مانگ لینا - گھر مول لینا -)

مکان لگنا - (۱۶) - صفت (مکان لگانے کی جگہ -)

مکانات - (مک - کانات، ۱۶) - مٹ (مکان کی جمع - بہت سے مکان -)

مکانت - (مک - کانت، ۱۶) - مٹ (مکانت کی جمع - مکانات -)

مکانت - (مک - کانت، ۱۶) - مٹ (مکانت کی جمع - مکانات -)

مکانت - (مک - کانت، ۱۶) - مٹ (مکانت کی جمع - مکانات -)

مکانت - (مک - کانت، ۱۶) - مٹ (مکانت کی جمع - مکانات -)

مکانت - (مک - کانت، ۱۶) - مٹ (مکانت کی جمع - مکانات -)

مکانت - (مک - کانت، ۱۶) - مٹ (مکانت کی جمع - مکانات -)

مکانت - (مک - کانت، ۱۶) - مٹ (مکانت کی جمع - مکانات -)

مکانت - (مک - کانت، ۱۶) - مٹ (مکانت کی جمع - مکانات -)

مکانت - (مک - کانت، ۱۶) - مٹ (مکانت کی جمع - مکانات -)

مکانت - (مک - کانت، ۱۶) - مٹ (مکانت کی جمع - مکانات -)

مکوٹی بھجیسا۔ کوکے اُبے ہوئے پتے جو بعض بیماریوں میں مریض کو کھلائے جاتے ہیں۔
 مگوڑا۔ (م۔ کوڑا، ۱۰۵۔ اذہا بڑا کڑوا۔ بڑا چوٹا۔
 مگوکوب۔ (م۔ کوکوب، ۱۰۷۔ صفت) وہ چیز جس پر سنہری چاندی کے پتے ہوئے ہوں۔
 مگوول۔ (م۔ گوول، ۱۰۵۔ صفت) چاک۔ مگوامٹی۔
 مگوول۔ (م۔ گوول، ۱۰۷۔ صفت) پیدا کرنے والا۔
 مگوول۔ (م۔ گوول، ۱۰۷۔ صفت) پیدا کیا گیا دست کیا ہوا۔
 مگوونات۔ (م۔ گوونات، ۱۰۷۔ صفت) کوٹن کی جمع۔ مخلوقات۔

موجرات۔
 مگک۔ (مگک، ۱۰۷۔ صفت) عرب کا وہ مشہور عالم شہر جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ تعظیماً مگک منظر کہتے ہیں۔

مگکھ۔ (مگکھ، ۱۰۷۔ صفت) منہ چہرہ۔
 مگکھ بند۔ (مگکھ بند، ۱۰۷۔ صفت) ایک مرض کا نام جس میں سے اوپر کے جڑے بیٹھ کر منہ بند ہوتا ہے۔

مگکھ پان۔ (مگکھ پان، ۱۰۷۔ صفت) یاں کی شکل کا تیل وغیرہ مگکھ پان سے خوبصورتی کے لیے نقل پر چالی لگانے کی جگہ جڑ دیتے ہیں۔

مگکھ تالی۔ (مگکھ تالی، ۱۰۷۔ صفت) اسٹرہ۔ استھانی۔ ٹیپ، وہ آواز جو کتبے منہ سے نکلتے ہیں۔

مگکھ منتری۔ (مگکھ منتری، ۱۰۷۔ صفت) وڑیا عظم۔ مدار الہام۔
 مگکھ میں سام پیٹ میں چھری۔ (۱۰۷۔ صفت) ظاہر میں نیک باطن میں نیک۔

مگکھ مکتھ۔ (مگکھ مکتھ، ۱۰۷۔ صفت) بڑی کمی سے بھگ کی بڑی کمی۔
 مگکھانا۔ (مگکھانا، ۱۰۷۔ صفت) کنول کا بیج جو صومون رکھا جاتا ہے۔ تال مگکھانا۔ (۱۰۷۔ صفت) ایک قسم کی مٹھانی۔

مگکھ پڑا۔ (مگکھ پڑا، ۱۰۷۔ صفت) پیارا منہ۔ پیارا چہرہ۔
 مگکھ پڑا تلوول۔ (مگکھ پڑا تلوول، ۱۰۷۔ صفت) انسان کے گورے کی تعریف میں کہتے ہیں کہ فلان شخص اتنا خوب صورت ہے کہ دوسرے کا چہرہ کا رنگ ان کے تلوول کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔

مگکھن۔ (مگکھن، ۱۰۷۔ صفت) کی تازہ کمی۔ مسک۔
 مگکھن گھانا۔ (مگکھن گھانا، ۱۰۷۔ صفت) خوشامد کرنا۔
 مگکھن نکالنا۔ (مگکھن نکالنا، ۱۰۷۔ صفت) دیہی یا کتے دودھ کو بول کر مسک نکالنا۔

مگکھنا۔ (مگکھنا، ۱۰۷۔ صفت) ایسے دانت کا ہاتھی، ۱۰۷۔ صفت) ایک قسم کا بڑا ہاتھی جو جھوم جھوم کر جلتا ہے۔

مگکھنا دیو۔ (مگکھنا دیو، ۱۰۷۔ صفت) ایک قسم کا بڑا دیو۔
 مگکھنیا۔ (مگکھنیا، ۱۰۷۔ صفت) مگکھن بچنے والا۔

مگکھون۔ (مگکھون، ۱۰۷۔ صفت) مگکھون۔
 مگکھی۔ (مگکھی، ۱۰۷۔ صفت) مگکھی۔
 مگکھی۔ (مگکھی، ۱۰۷۔ صفت) مگکھی۔

مگکھی۔ (مگکھی، ۱۰۷۔ صفت) مگکھی۔
 مگکھی۔ (مگکھی، ۱۰۷۔ صفت) مگکھی۔

مگوڑی ملی جانا۔ مگوڑی کا بدن پر پس جانے کے باعث چپ لگ جانے سے بدن کا پھول جانا۔

مگسچر۔ (Mixture) (مگسچر، ۱۰۷۔ صفت) آمیزش، دو اوزن کا سیال مرکب۔

مگسٹنز۔ (مگسٹنز، ۱۰۷۔ صفت) ٹوٹا ہوا۔ خشک۔ ۲۰ مربع۔ مگسٹنز، عریض۔ طول اور موٹائی کا حاصل ضرب۔

مگسٹویہ۔ (مگسٹویہ، ۱۰۷۔ صفت) حاصل کیا گیا۔ حاصل کیا ہوا۔
 مگسٹوز۔ (مگسٹوز، ۱۰۷۔ صفت) زبردیا، بجا حرف۔ وہ حرف جس کے نیچے زیر ہو۔

مگسٹوزہ۔ (مگسٹوزہ، ۱۰۷۔ صفت) زبردیا بجا حرف۔
 مگسٹوف۔ (مگسٹوف، ۱۰۷۔ صفت) گھولا گیا۔ واضح۔ ظاہر۔

مگسٹوب۔ (مگسٹوب، ۱۰۷۔ صفت) چار گوشہ کیا گیا۔ وہ جس کی لیانی پڑائی اور گہرائی برابر ہو، وہ عدد جو کسی عدد کو آپس میں تین دفعہ ضرب دینے سے حاصل ہو۔

مگسٹوف۔ (مگسٹوف، ۱۰۷۔ صفت) پیرا، بہن بیٹا ہوا، عریض میں سات حرفوں کا لفظ جس کا آخری لفظ گرا دیا گیا ہو۔

مگسٹول۔ (مگسٹول، ۱۰۷۔ صفت) نکالت میں دیا گیا۔ ضمانت میں محفوظ کیا گیا۔
 مگسٹول۔ (مگسٹول، ۱۰۷۔ صفت) گرد رکھا ہوا۔

مگسٹولہ۔ (مگسٹولہ، ۱۰۷۔ صفت) ہندوؤں میں شادی کے بعد دوبارہ کاؤہن کو پہلی بار گھر لے جانا، مسلمانوں میں شادی کے بعد وہیں کا سسرال سے نکلنے یا شیکے سے سسرال جانا۔

مگسٹوف۔ (مگسٹوف، ۱۰۷۔ صفت) پرتکلف۔ مزین۔ سجا ہوا۔ بھڑکیلا (۱۰۷۔ صفت) تکلیف دیا گیا۔

مگسٹوف۔ (مگسٹوف، ۱۰۷۔ صفت) تکلیف دینے والا، ۲، بلاتے والا۔ تعریب میں شریک ہونے کی تکلیف دینے والا، ۳، ہماڑا۔

مگسٹول۔ (مگسٹول، ۱۰۷۔ صفت) سر پر تاج رکھا گیا، تاجدار چکا گیا، چکدار۔
 مگسٹول۔ (مگسٹول، ۱۰۷۔ صفت) مرصع۔ بڑا ڈو۔

مگسٹول۔ (مگسٹول، ۱۰۷۔ صفت) مگسٹول۔
 مگسٹول۔ (مگسٹول، ۱۰۷۔ صفت) مگسٹول۔

مگسٹول۔ (مگسٹول، ۱۰۷۔ صفت) مگسٹول۔
 مگسٹول۔ (مگسٹول، ۱۰۷۔ صفت) مگسٹول۔

مگسٹول۔ (مگسٹول، ۱۰۷۔ صفت) مگسٹول۔
 مگسٹول۔ (مگسٹول، ۱۰۷۔ صفت) مگسٹول۔

مگسٹول۔ (مگسٹول، ۱۰۷۔ صفت) مگسٹول۔
 مگسٹول۔ (مگسٹول، ۱۰۷۔ صفت) مگسٹول۔

ملا مُرشد - (م۔ ل۔ ا۔ مُرشد،) (ع۔ ا۔ مُرشد) بڑا بھلا۔ جبرو کی ڈانٹ ڈپٹ۔ سرزنش
 لسن طعن۔ فقیریت۔ دُستکار۔
 ملا مُکت کرنا - (ج۔ ا۔ ۱۳۔ ع۔ ا۔ ۱۳) بڑا بھلا کہنا۔ جیوکانا۔
 ملا مُتقی - (م۔ ل۔ ا۔ مُتقی،) (ع۔ صفت) لعنتی لعنت کہا گیا مردود ۲، فقیروں
 کا ٹولہ جو بظاہر احکام شریعت کی پابندی نہیں کرتے مگر چھپ کر عبادت
 کرتے ہیں۔
 ملا مُن - (م۔ ل۔ ا۔ مُن،) (ع۔ ا۔ ۱۰۔ ۱۱۔ ۱۲) مقابلہ۔ تقابُل ۲، ملاپ - استوار - اتفاق ۳،
 فیصلہ۔ تصفیہ (م۔ میرزان -
 ملا نا - (م۔ ل۔ ا۔ نا،) (ع۔ ا۔ ۱۰) ملاپ کرنا۔ مقابلہ کرنا۔ فرق نکالنا ۱۲، مُرکت کرنا۔
 آمیز کرنا ۳، شناسائی کرنا۔ ملاقات کرنا، شامل کرنا۔ ملحق کرنا ۵، رازدار
 بنانا۔ گمانگنا ۱۲، لانا۔ مقابلہ کرنا۔
 ملا نا۔ ملا نا۔ (م۔ ل۔ ا۔ نا،) (ع۔ ا۔ ۱۰) آمیز کرنا۔ آمیز کرنا۔ آمیز کرنا۔ آمیز کرنا۔
 کھانے والا ۳، سیدھا سا آدمی ۴، صرف دین کی باتیں جاننے والا۔
 پابند شریعت۔ پکا دین دار۔
 ملا نثار - (م۔ ل۔ ا۔ نثار،) (ع۔ ا۔ ۱۰) ملاپ کرنے والا۔
 ملا نئی - (م۔ ل۔ ا۔ نئی،) (ع۔ ا۔ ۱۰) آمیز کرنا۔ آمیز کرنا۔ آمیز کرنا۔ آمیز کرنا۔
 ملا نئے کھلانا - (ج۔ ا۔ ۱۱۔ ع۔ ا۔ ۱۱) آمیز کرنا۔ آمیز کرنا۔ آمیز کرنا۔ آمیز کرنا۔
 مسکینوں کو کھلانا۔
 ملا وا - (م۔ ل۔ ا۔ وا،) (ع۔ ا۔ ۱۰) ملاپ۔ وصل۔
 ملا ڈوٹ - (م۔ ل۔ ا۔ ڈوٹ،) (ع۔ ا۔ ۱۰) آمیزش۔ کھوٹ ۲، سازش۔
 ملا ٹک (ملا ٹکھ) - (ج۔ ا۔ ۱۰) آمیزش۔ آمیزش۔ آمیزش۔ آمیزش۔
 ملا ٹم - (م۔ ل۔ ا۔ ٹم،) (ع۔ ا۔ ۱۰) آمیزش۔ آمیزش۔ آمیزش۔ آمیزش۔
 نازک۔ ڈوبنا۔ پھلنا۔
 ملا ٹم چارہ - (ج۔ ا۔ ۱۰) ملاپ۔ ملاپ۔ ملاپ۔ ملاپ۔
 ملا ٹم کرنا - (ج۔ ا۔ ۱۰) آمیزش۔ آمیزش۔ آمیزش۔ آمیزش۔
 ملا مُکت - (م۔ ل۔ ا۔ مُکت،) (ع۔ ا۔ ۱۰) آمیزش۔ آمیزش۔ آمیزش۔ آمیزش۔
 موافقت۔ مناسبت۔
 ملا وا - (م۔ ل۔ ا۔ وا،) (ع۔ ا۔ ۱۰) آمیزش۔ آمیزش۔ آمیزش۔ آمیزش۔
 ملائی - (م۔ ل۔ ا۔ ی،) (ع۔ ا۔ ۱۰) آمیزش۔ آمیزش۔ آمیزش۔ آمیزش۔
 ملائی پڑنا - (ج۔ ا۔ ۱۰) آمیزش۔ آمیزش۔ آمیزش۔ آمیزش۔
 ملائی کھانا - (ج۔ ا۔ ۱۰) آمیزش۔ آمیزش۔ آمیزش۔ آمیزش۔
 ملائی - (م۔ ل۔ ا۔ ی،) (ع۔ ا۔ ۱۰) آمیزش۔ آمیزش۔ آمیزش۔ آمیزش۔
 ملائی خیرج - (ج۔ ا۔ ۱۰) آمیزش۔ آمیزش۔ آمیزش۔ آمیزش۔
 ملائی بانیٹ کے - (ج۔ ا۔ ۱۰) آمیزش۔ آمیزش۔ آمیزش۔ آمیزش۔
 ملائی - (م۔ ل۔ ا۔ ی،) (ع۔ ا۔ ۱۰) آمیزش۔ آمیزش۔ آمیزش۔ آمیزش۔

ملا مُکت کرنا - (ج۔ ا۔ ۱۳۔ ع۔ ا۔ ۱۳) بڑا بھلا کہنا۔ جیوکانا۔
 ملا مُتقی - (م۔ ل۔ ا۔ مُتقی،) (ع۔ صفت) لعنتی لعنت کہا گیا مردود ۲، فقیروں
 کا ٹولہ جو بظاہر احکام شریعت کی پابندی نہیں کرتے مگر چھپ کر عبادت
 کرتے ہیں۔
 ملا مُن - (م۔ ل۔ ا۔ مُن،) (ع۔ ا۔ ۱۰۔ ۱۱۔ ۱۲) مقابلہ۔ تقابُل ۲، ملاپ - استوار - اتفاق ۳،
 فیصلہ۔ تصفیہ (م۔ میرزان -
 ملا نا - (م۔ ل۔ ا۔ نا،) (ع۔ ا۔ ۱۰) ملاپ کرنا۔ مقابلہ کرنا۔ فرق نکالنا ۱۲، مُرکت کرنا۔
 آمیز کرنا ۳، شناسائی کرنا۔ ملاقات کرنا، شامل کرنا۔ ملحق کرنا ۵، رازدار
 بنانا۔ گمانگنا ۱۲، لانا۔ مقابلہ کرنا۔
 ملا نا۔ ملا نا۔ (م۔ ل۔ ا۔ نا،) (ع۔ ا۔ ۱۰) آمیز کرنا۔ آمیز کرنا۔ آمیز کرنا۔ آمیز کرنا۔
 کھانے والا ۳، سیدھا سا آدمی ۴، صرف دین کی باتیں جاننے والا۔
 پابند شریعت۔ پکا دین دار۔
 ملا نثار - (م۔ ل۔ ا۔ نثار،) (ع۔ ا۔ ۱۰) ملاپ کرنے والا۔
 ملا نئی - (م۔ ل۔ ا۔ نئی،) (ع۔ ا۔ ۱۰) آمیز کرنا۔ آمیز کرنا۔ آمیز کرنا۔ آمیز کرنا۔
 ملا نئے کھلانا - (ج۔ ا۔ ۱۱۔ ع۔ ا۔ ۱۱) آمیز کرنا۔ آمیز کرنا۔ آمیز کرنا۔ آمیز کرنا۔
 مسکینوں کو کھلانا۔
 ملا وا - (م۔ ل۔ ا۔ وا،) (ع۔ ا۔ ۱۰) ملاپ۔ وصل۔
 ملا ڈوٹ - (م۔ ل۔ ا۔ ڈوٹ،) (ع۔ ا۔ ۱۰) آمیزش۔ کھوٹ ۲، سازش۔
 ملا ٹک (ملا ٹکھ) - (ج۔ ا۔ ۱۰) آمیزش۔ آمیزش۔ آمیزش۔ آمیزش۔
 ملا ٹم - (م۔ ل۔ ا۔ ٹم،) (ع۔ ا۔ ۱۰) آمیزش۔ آمیزش۔ آمیزش۔ آمیزش۔
 نازک۔ ڈوبنا۔ پھلنا۔
 ملا ٹم چارہ - (ج۔ ا۔ ۱۰) ملاپ۔ ملاپ۔ ملاپ۔ ملاپ۔
 ملا ٹم کرنا - (ج۔ ا۔ ۱۰) آمیزش۔ آمیزش۔ آمیزش۔ آمیزش۔
 ملا مُکت - (م۔ ل۔ ا۔ مُکت،) (ع۔ ا۔ ۱۰) آمیزش۔ آمیزش۔ آمیزش۔ آمیزش۔
 موافقت۔ مناسبت۔
 ملا وا - (م۔ ل۔ ا۔ وا،) (ع۔ ا۔ ۱۰) آمیزش۔ آمیزش۔ آمیزش۔ آمیزش۔
 ملائی - (م۔ ل۔ ا۔ ی،) (ع۔ ا۔ ۱۰) آمیزش۔ آمیزش۔ آمیزش۔ آمیزش۔
 ملائی پڑنا - (ج۔ ا۔ ۱۰) آمیزش۔ آمیزش۔ آمیزش۔ آمیزش۔
 ملائی کھانا - (ج۔ ا۔ ۱۰) آمیزش۔ آمیزش۔ آمیزش۔ آمیزش۔
 ملائی - (م۔ ل۔ ا۔ ی،) (ع۔ ا۔ ۱۰) آمیزش۔ آمیزش۔ آمیزش۔ آمیزش۔
 ملائی خیرج - (ج۔ ا۔ ۱۰) آمیزش۔ آمیزش۔ آمیزش۔ آمیزش۔
 ملائی بانیٹ کے - (ج۔ ا۔ ۱۰) آمیزش۔ آمیزش۔ آمیزش۔ آمیزش۔
 ملائی - (م۔ ل۔ ا۔ ی،) (ع۔ ا۔ ۱۰) آمیزش۔ آمیزش۔ آمیزش۔ آمیزش۔

کھکتے ہیں۔
 نلجا۔ رنل جا، (ع-۱) مذ (جائے پناہ۔ پناہ ملنے کی جگہ۔ وہ مقام جہاں جا کر آدمی اپنی جان بچائے۔ مامن۔
 طحا و ماوا۔ (ع-۱) مذ (پناہ ملنے کی جگہ۔
 مل جانا۔ (ع-۱) محاورہ (۱) ابرو جانا۔ پیوستہ بوجھانا (۲) صلح و صفائی ہو جانا (۳) شامل ہو جانا۔ شریک ہو جانا (۴) دوچار ہونا۔ ملاقات ہو جانا (۵) حاصل ہونا۔ وصول ہو جانا۔
 بل جل کر۔ (ع-۱) تابع فعل، بل بل کر۔ اکٹھے ہو کر۔ سلوک سے۔ استحداد کے ساتھ۔

تلچھ۔ (ع-۱) مذ (صفت) پلید۔ سیلا۔ ناپاک۔ غلیظ۔ گھوری۔ ناپاک قوم (۲) بدگلی آدمی۔ دوستی آدمی (۳) کافر۔ بے دین۔
 رنل۔ (ع-۱) مذ (نمک۔ لون۔ کھار۔ شور۔
 رنل جہد۔ (ع-۱) مذ (فاسق۔ کافر۔ بے دین۔ راہ حق سے بچا ہوا۔
 رنل۔ (ع-۱) مذ (صفت) بڑا ہوا۔ لگا ہوا۔ ملا ہوا۔ پیوستہ۔ منسک۔
 رنل کرنا۔ (ع-۱) مذ (صفت) شامل کرنا۔ ملانا۔ داخل کرنا۔
 رنل جہن۔ (ع-۱) مذ (صفت) جڑنے والا۔ پیچھے سے ملنے والا شامل۔ داخل شریک۔
 رنل جہت۔ (ع-۱) مذ (صفت) وہ چیزیں جو بعد میں ملادی گئی ہوں۔
 رنل جہت۔ (ع-۱) مذ (صفت) لگا لگا گیا۔ خیال کیا گیا۔
 رنل جہت۔ (ع-۱) مذ (صفت) دلی خیال۔ دلی توجہ (۲) دل سے
 رنل جہت۔ (ع-۱) مذ (صفت) خیال رکھا گیا۔

رنل جہت۔ (ع-۱) مذ (صفت) لگا لگا رکھنا۔ خیال رکھنا۔ یاد رکھنا۔
 رنل جہت۔ (ع-۱) مذ (صفت) خاطر رکھنا۔
 رنل جہت۔ (ع-۱) مذ (صفت) مٹا۔ مٹا۔ مٹا۔
 رنل جہت۔ (ع-۱) مذ (صفت) خالص کیا گیا۔ پاک کیا گیا۔ خالص۔ پاک۔
 رنل جہت۔ (ع-۱) مذ (صفت) خالص کیا گیا۔ خالص۔ محض۔
 رنل جہت۔ (ع-۱) مذ (صفت) لذت۔ لذت۔ لذت۔
 لذت۔ (ع-۱) مذ (صفت) لذت۔ لذت۔ لذت۔
 لذت۔ (ع-۱) مذ (صفت) لذت۔ لذت۔ لذت۔

رنل جہت۔ (ع-۱) مذ (صفت) لذت۔ لذت۔ لذت۔
 رنل جہت۔ (ع-۱) مذ (صفت) لذت۔ لذت۔ لذت۔
 رنل جہت۔ (ع-۱) مذ (صفت) لذت۔ لذت۔ لذت۔
 رنل جہت۔ (ع-۱) مذ (صفت) لذت۔ لذت۔ لذت۔
 رنل جہت۔ (ع-۱) مذ (صفت) لذت۔ لذت۔ لذت۔
 رنل جہت۔ (ع-۱) مذ (صفت) لذت۔ لذت۔ لذت۔
 رنل جہت۔ (ع-۱) مذ (صفت) لذت۔ لذت۔ لذت۔

رنل جہت۔ (ع-۱) مذ (صفت) لذت۔ لذت۔ لذت۔
 رنل جہت۔ (ع-۱) مذ (صفت) لذت۔ لذت۔ لذت۔
 رنل جہت۔ (ع-۱) مذ (صفت) لذت۔ لذت۔ لذت۔
 رنل جہت۔ (ع-۱) مذ (صفت) لذت۔ لذت۔ لذت۔
 رنل جہت۔ (ع-۱) مذ (صفت) لذت۔ لذت۔ لذت۔
 رنل جہت۔ (ع-۱) مذ (صفت) لذت۔ لذت۔ لذت۔
 رنل جہت۔ (ع-۱) مذ (صفت) لذت۔ لذت۔ لذت۔

رنل جہت۔ (ع-۱) مذ (صفت) لذت۔ لذت۔ لذت۔
 رنل جہت۔ (ع-۱) مذ (صفت) لذت۔ لذت۔ لذت۔
 رنل جہت۔ (ع-۱) مذ (صفت) لذت۔ لذت۔ لذت۔
 رنل جہت۔ (ع-۱) مذ (صفت) لذت۔ لذت۔ لذت۔
 رنل جہت۔ (ع-۱) مذ (صفت) لذت۔ لذت۔ لذت۔
 رنل جہت۔ (ع-۱) مذ (صفت) لذت۔ لذت۔ لذت۔
 رنل جہت۔ (ع-۱) مذ (صفت) لذت۔ لذت۔ لذت۔

رنل جہت۔ (ع-۱) مذ (صفت) لذت۔ لذت۔ لذت۔
 رنل جہت۔ (ع-۱) مذ (صفت) لذت۔ لذت۔ لذت۔
 رنل جہت۔ (ع-۱) مذ (صفت) لذت۔ لذت۔ لذت۔
 رنل جہت۔ (ع-۱) مذ (صفت) لذت۔ لذت۔ لذت۔
 رنل جہت۔ (ع-۱) مذ (صفت) لذت۔ لذت۔ لذت۔
 رنل جہت۔ (ع-۱) مذ (صفت) لذت۔ لذت۔ لذت۔
 رنل جہت۔ (ع-۱) مذ (صفت) لذت۔ لذت۔ لذت۔

رنل جہت۔ (ع-۱) مذ (صفت) لذت۔ لذت۔ لذت۔
 رنل جہت۔ (ع-۱) مذ (صفت) لذت۔ لذت۔ لذت۔
 رنل جہت۔ (ع-۱) مذ (صفت) لذت۔ لذت۔ لذت۔
 رنل جہت۔ (ع-۱) مذ (صفت) لذت۔ لذت۔ لذت۔
 رنل جہت۔ (ع-۱) مذ (صفت) لذت۔ لذت۔ لذت۔
 رنل جہت۔ (ع-۱) مذ (صفت) لذت۔ لذت۔ لذت۔
 رنل جہت۔ (ع-۱) مذ (صفت) لذت۔ لذت۔ لذت۔

رنل جہت۔ (ع-۱) مذ (صفت) لذت۔ لذت۔ لذت۔
 رنل جہت۔ (ع-۱) مذ (صفت) لذت۔ لذت۔ لذت۔
 رنل جہت۔ (ع-۱) مذ (صفت) لذت۔ لذت۔ لذت۔
 رنل جہت۔ (ع-۱) مذ (صفت) لذت۔ لذت۔ لذت۔
 رنل جہت۔ (ع-۱) مذ (صفت) لذت۔ لذت۔ لذت۔
 رنل جہت۔ (ع-۱) مذ (صفت) لذت۔ لذت۔ لذت۔
 رنل جہت۔ (ع-۱) مذ (صفت) لذت۔ لذت۔ لذت۔

رنل جہت۔ (ع-۱) مذ (صفت) لذت۔ لذت۔ لذت۔
 رنل جہت۔ (ع-۱) مذ (صفت) لذت۔ لذت۔ لذت۔
 رنل جہت۔ (ع-۱) مذ (صفت) لذت۔ لذت۔ لذت۔
 رنل جہت۔ (ع-۱) مذ (صفت) لذت۔ لذت۔ لذت۔
 رنل جہت۔ (ع-۱) مذ (صفت) لذت۔ لذت۔ لذت۔
 رنل جہت۔ (ع-۱) مذ (صفت) لذت۔ لذت۔ لذت۔
 رنل جہت۔ (ع-۱) مذ (صفت) لذت۔ لذت۔ لذت۔

(۵) کھرا کرنا۔ ہاتھ پھیرنا جیسے گھوٹا مٹا (۶) مڑونا۔ ایٹھنا۔ جیسے کان ملنا۔
 ملنا دلنا۔ (۱) محاورہ (مسلما۔ ماش کرنا۔ کسی چیز کو ہاتھ کا ہاؤسے کررگڑنا۔

طلنہ (دین، بنا، ۱)۔ مص، پیوستہ ہونا۔ ملتی ہونا۔ ایک ذات ہونا۔ (۲) مرکب ہونا۔ دو چیزوں کا یکجا ہونا (۳) گڑ بڑ ہونا۔ غلط ملط ہونا (۴) ملاقات ہونا۔ سامنا ہونا۔ اکٹھا ہونا (۵) حاصل ہونا۔ ہاتھ میں آنا۔ میسر ہونا۔ ہاتھ لگنا (۶) فائدہ ہونا (۷) گلے ملنا۔ بے لگت ہونا۔ (۸) وصل ہونا۔ ہم بستہ ہونا (۹) سازش کرنا (۱۰) شامل ہونا (۱۱) مطابق ہونا (۱۲) قایل ہونا (۱۳) راستہ پر ہونا۔ عطا ہونا۔ ضایت ہونا۔ (۱۴) ربط و ضبط ہونا۔ راہ و رسم رکھنا۔ دوستی پیدا کرنا۔ پیارنا۔ کاٹھنا (۱۵) متفق ہونے۔ ہونا۔ رائے میں شریک ہونا (۱۶) ٹس ہونا۔ چھوٹا جانا۔ (۱۷) مل جل۔ راہ و رسم۔ ملاقات (۱۸) رخصت کے وقت معائنہ کرنا (۱۹) کسی کام کا موقع ملنا (۲۰) دکھائی دینا۔

ملنا چلنا۔ (۱) ملنا۔ مل طلب۔ راہ و رسم۔ ملاقات۔
 ملنگ۔ (۱) ملنگ۔ (۲) ملنگ۔ (۳) ملنگ۔ (۴) ملنگ۔ (۵) ملنگ۔ (۶) ملنگ۔ (۷) ملنگ۔ (۸) ملنگ۔ (۹) ملنگ۔ (۱۰) ملنگ۔ (۱۱) ملنگ۔ (۱۲) ملنگ۔ (۱۳) ملنگ۔ (۱۴) ملنگ۔ (۱۵) ملنگ۔ (۱۶) ملنگ۔ (۱۷) ملنگ۔ (۱۸) ملنگ۔ (۱۹) ملنگ۔ (۲۰) ملنگ۔

ملنی۔ (۱) ملنی۔ (۲) ملنی۔ (۳) ملنی۔ (۴) ملنی۔ (۵) ملنی۔ (۶) ملنی۔ (۷) ملنی۔ (۸) ملنی۔ (۹) ملنی۔ (۱۰) ملنی۔ (۱۱) ملنی۔ (۱۲) ملنی۔ (۱۳) ملنی۔ (۱۴) ملنی۔ (۱۵) ملنی۔ (۱۶) ملنی۔ (۱۷) ملنی۔ (۱۸) ملنی۔ (۱۹) ملنی۔ (۲۰) ملنی۔

ملو۔ (۱) ملو۔ (۲) ملو۔ (۳) ملو۔ (۴) ملو۔ (۵) ملو۔ (۶) ملو۔ (۷) ملو۔ (۸) ملو۔ (۹) ملو۔ (۱۰) ملو۔ (۱۱) ملو۔ (۱۲) ملو۔ (۱۳) ملو۔ (۱۴) ملو۔ (۱۵) ملو۔ (۱۶) ملو۔ (۱۷) ملو۔ (۱۸) ملو۔ (۱۹) ملو۔ (۲۰) ملو۔

ملوانا۔ (۱) ملوانا۔ (۲) ملوانا۔ (۳) ملوانا۔ (۴) ملوانا۔ (۵) ملوانا۔ (۶) ملوانا۔ (۷) ملوانا۔ (۸) ملوانا۔ (۹) ملوانا۔ (۱۰) ملوانا۔ (۱۱) ملوانا۔ (۱۲) ملوانا۔ (۱۳) ملوانا۔ (۱۴) ملوانا۔ (۱۵) ملوانا۔ (۱۶) ملوانا۔ (۱۷) ملوانا۔ (۱۸) ملوانا۔ (۱۹) ملوانا۔ (۲۰) ملوانا۔

ملوٹ۔ (۱) ملوٹ۔ (۲) ملوٹ۔ (۳) ملوٹ۔ (۴) ملوٹ۔ (۵) ملوٹ۔ (۶) ملوٹ۔ (۷) ملوٹ۔ (۸) ملوٹ۔ (۹) ملوٹ۔ (۱۰) ملوٹ۔ (۱۱) ملوٹ۔ (۱۲) ملوٹ۔ (۱۳) ملوٹ۔ (۱۴) ملوٹ۔ (۱۵) ملوٹ۔ (۱۶) ملوٹ۔ (۱۷) ملوٹ۔ (۱۸) ملوٹ۔ (۱۹) ملوٹ۔ (۲۰) ملوٹ۔

ملوگ۔ (۱) ملوگ۔ (۲) ملوگ۔ (۳) ملوگ۔ (۴) ملوگ۔ (۵) ملوگ۔ (۶) ملوگ۔ (۷) ملوگ۔ (۸) ملوگ۔ (۹) ملوگ۔ (۱۰) ملوگ۔ (۱۱) ملوگ۔ (۱۲) ملوگ۔ (۱۳) ملوگ۔ (۱۴) ملوگ۔ (۱۵) ملوگ۔ (۱۶) ملوگ۔ (۱۷) ملوگ۔ (۱۸) ملوگ۔ (۱۹) ملوگ۔ (۲۰) ملوگ۔

ملوگ۔ (۱) ملوگ۔ (۲) ملوگ۔ (۳) ملوگ۔ (۴) ملوگ۔ (۵) ملوگ۔ (۶) ملوگ۔ (۷) ملوگ۔ (۸) ملوگ۔ (۹) ملوگ۔ (۱۰) ملوگ۔ (۱۱) ملوگ۔ (۱۲) ملوگ۔ (۱۳) ملوگ۔ (۱۴) ملوگ۔ (۱۵) ملوگ۔ (۱۶) ملوگ۔ (۱۷) ملوگ۔ (۱۸) ملوگ۔ (۱۹) ملوگ۔ (۲۰) ملوگ۔

ملوگ۔ (۱) ملوگ۔ (۲) ملوگ۔ (۳) ملوگ۔ (۴) ملوگ۔ (۵) ملوگ۔ (۶) ملوگ۔ (۷) ملوگ۔ (۸) ملوگ۔ (۹) ملوگ۔ (۱۰) ملوگ۔ (۱۱) ملوگ۔ (۱۲) ملوگ۔ (۱۳) ملوگ۔ (۱۴) ملوگ۔ (۱۵) ملوگ۔ (۱۶) ملوگ۔ (۱۷) ملوگ۔ (۱۸) ملوگ۔ (۱۹) ملوگ۔ (۲۰) ملوگ۔

ملوگ۔ (۱) ملوگ۔ (۲) ملوگ۔ (۳) ملوگ۔ (۴) ملوگ۔ (۵) ملوگ۔ (۶) ملوگ۔ (۷) ملوگ۔ (۸) ملوگ۔ (۹) ملوگ۔ (۱۰) ملوگ۔ (۱۱) ملوگ۔ (۱۲) ملوگ۔ (۱۳) ملوگ۔ (۱۴) ملوگ۔ (۱۵) ملوگ۔ (۱۶) ملوگ۔ (۱۷) ملوگ۔ (۱۸) ملوگ۔ (۱۹) ملوگ۔ (۲۰) ملوگ۔

ملونی۔ (۱) ملونی۔ (۲) ملونی۔ (۳) ملونی۔ (۴) ملونی۔ (۵) ملونی۔ (۶) ملونی۔ (۷) ملونی۔ (۸) ملونی۔ (۹) ملونی۔ (۱۰) ملونی۔ (۱۱) ملونی۔ (۱۲) ملونی۔ (۱۳) ملونی۔ (۱۴) ملونی۔ (۱۵) ملونی۔ (۱۶) ملونی۔ (۱۷) ملونی۔ (۱۸) ملونی۔ (۱۹) ملونی۔ (۲۰) ملونی۔

ملونہ۔ (۱) ملونہ۔ (۲) ملونہ۔ (۳) ملونہ۔ (۴) ملونہ۔ (۵) ملونہ۔ (۶) ملونہ۔ (۷) ملونہ۔ (۸) ملونہ۔ (۹) ملونہ۔ (۱۰) ملونہ۔ (۱۱) ملونہ۔ (۱۲) ملونہ۔ (۱۳) ملونہ۔ (۱۴) ملونہ۔ (۱۵) ملونہ۔ (۱۶) ملونہ۔ (۱۷) ملونہ۔ (۱۸) ملونہ۔ (۱۹) ملونہ۔ (۲۰) ملونہ۔

ملوٹ۔ (۱) ملوٹ۔ (۲) ملوٹ۔ (۳) ملوٹ۔ (۴) ملوٹ۔ (۵) ملوٹ۔ (۶) ملوٹ۔ (۷) ملوٹ۔ (۸) ملوٹ۔ (۹) ملوٹ۔ (۱۰) ملوٹ۔ (۱۱) ملوٹ۔ (۱۲) ملوٹ۔ (۱۳) ملوٹ۔ (۱۴) ملوٹ۔ (۱۵) ملوٹ۔ (۱۶) ملوٹ۔ (۱۷) ملوٹ۔ (۱۸) ملوٹ۔ (۱۹) ملوٹ۔ (۲۰) ملوٹ۔

ملوگ۔ (۱) ملوگ۔ (۲) ملوگ۔ (۳) ملوگ۔ (۴) ملوگ۔ (۵) ملوگ۔ (۶) ملوگ۔ (۷) ملوگ۔ (۸) ملوگ۔ (۹) ملوگ۔ (۱۰) ملوگ۔ (۱۱) ملوگ۔ (۱۲) ملوگ۔ (۱۳) ملوگ۔ (۱۴) ملوگ۔ (۱۵) ملوگ۔ (۱۶) ملوگ۔ (۱۷) ملوگ۔ (۱۸) ملوگ۔ (۱۹) ملوگ۔ (۲۰) ملوگ۔

ملوگ۔ (۱) ملوگ۔ (۲) ملوگ۔ (۳) ملوگ۔ (۴) ملوگ۔ (۵) ملوگ۔ (۶) ملوگ۔ (۷) ملوگ۔ (۸) ملوگ۔ (۹) ملوگ۔ (۱۰) ملوگ۔ (۱۱) ملوگ۔ (۱۲) ملوگ۔ (۱۳) ملوگ۔ (۱۴) ملوگ۔ (۱۵) ملوگ۔ (۱۶) ملوگ۔ (۱۷) ملوگ۔ (۱۸) ملوگ۔ (۱۹) ملوگ۔ (۲۰) ملوگ۔

ملوگ۔ (۱) ملوگ۔ (۲) ملوگ۔ (۳) ملوگ۔ (۴) ملوگ۔ (۵) ملوگ۔ (۶) ملوگ۔ (۷) ملوگ۔ (۸) ملوگ۔ (۹) ملوگ۔ (۱۰) ملوگ۔ (۱۱) ملوگ۔ (۱۲) ملوگ۔ (۱۳) ملوگ۔ (۱۴) ملوگ۔ (۱۵) ملوگ۔ (۱۶) ملوگ۔ (۱۷) ملوگ۔ (۱۸) ملوگ۔ (۱۹) ملوگ۔ (۲۰) ملوگ۔

ملوگ۔ (۱) ملوگ۔ (۲) ملوگ۔ (۳) ملوگ۔ (۴) ملوگ۔ (۵) ملوگ۔ (۶) ملوگ۔ (۷) ملوگ۔ (۸) ملوگ۔ (۹) ملوگ۔ (۱۰) ملوگ۔ (۱۱) ملوگ۔ (۱۲) ملوگ۔ (۱۳) ملوگ۔ (۱۴) ملوگ۔ (۱۵) ملوگ۔ (۱۶) ملوگ۔ (۱۷) ملوگ۔ (۱۸) ملوگ۔ (۱۹) ملوگ۔ (۲۰) ملوگ۔

ملوگ۔ (۱) ملوگ۔ (۲) ملوگ۔ (۳) ملوگ۔ (۴) ملوگ۔ (۵) ملوگ۔ (۶) ملوگ۔ (۷) ملوگ۔ (۸) ملوگ۔ (۹) ملوگ۔ (۱۰) ملوگ۔ (۱۱) ملوگ۔ (۱۲) ملوگ۔ (۱۳) ملوگ۔ (۱۴) ملوگ۔ (۱۵) ملوگ۔ (۱۶) ملوگ۔ (۱۷) ملوگ۔ (۱۸) ملوگ۔ (۱۹) ملوگ۔ (۲۰) ملوگ۔

ملوگ۔ (۱) ملوگ۔ (۲) ملوگ۔ (۳) ملوگ۔ (۴) ملوگ۔ (۵) ملوگ۔ (۶) ملوگ۔ (۷) ملوگ۔ (۸) ملوگ۔ (۹) ملوگ۔ (۱۰) ملوگ۔ (۱۱) ملوگ۔ (۱۲) ملوگ۔ (۱۳) ملوگ۔ (۱۴) ملوگ۔ (۱۵) ملوگ۔ (۱۶) ملوگ۔ (۱۷) ملوگ۔ (۱۸) ملوگ۔ (۱۹) ملوگ۔ (۲۰) ملوگ۔

ملوگ۔ (۱) ملوگ۔ (۲) ملوگ۔ (۳) ملوگ۔ (۴) ملوگ۔ (۵) ملوگ۔ (۶) ملوگ۔ (۷) ملوگ۔ (۸) ملوگ۔ (۹) ملوگ۔ (۱۰) ملوگ۔ (۱۱) ملوگ۔ (۱۲) ملوگ۔ (۱۳) ملوگ۔ (۱۴) ملوگ۔ (۱۵) ملوگ۔ (۱۶) ملوگ۔ (۱۷) ملوگ۔ (۱۸) ملوگ۔ (۱۹) ملوگ۔ (۲۰) ملوگ۔

ملوگ۔ (۱) ملوگ۔ (۲) ملوگ۔ (۳) ملوگ۔ (۴) ملوگ۔ (۵) ملوگ۔ (۶) ملوگ۔ (۷) ملوگ۔ (۸) ملوگ۔ (۹) ملوگ۔ (۱۰) ملوگ۔ (۱۱) ملوگ۔ (۱۲) ملوگ۔ (۱۳) ملوگ۔ (۱۴) ملوگ۔ (۱۵) ملوگ۔ (۱۶) ملوگ۔ (۱۷) ملوگ۔ (۱۸) ملوگ۔ (۱۹) ملوگ۔ (۲۰) ملوگ۔

ملوگ۔ (۱) ملوگ۔ (۲) ملوگ۔ (۳) ملوگ۔ (۴) ملوگ۔ (۵) ملوگ۔ (۶) ملوگ۔ (۷) ملوگ۔ (۸) ملوگ۔ (۹) ملوگ۔ (۱۰) ملوگ۔ (۱۱) ملوگ۔ (۱۲) ملوگ۔ (۱۳) ملوگ۔ (۱۴) ملوگ۔ (۱۵) ملوگ۔ (۱۶) ملوگ۔ (۱۷) ملوگ۔ (۱۸) ملوگ۔ (۱۹) ملوگ۔ (۲۰) ملوگ۔

ملوگ۔ (۱) ملوگ۔ (۲) ملوگ۔ (۳) ملوگ۔ (۴) ملوگ۔ (۵) ملوگ۔ (۶) ملوگ۔ (۷) ملوگ۔ (۸) ملوگ۔ (۹) ملوگ۔ (۱۰) ملوگ۔ (۱۱) ملوگ۔ (۱۲) ملوگ۔ (۱۳) ملوگ۔ (۱۴) ملوگ۔ (۱۵) ملوگ۔ (۱۶) ملوگ۔ (۱۷) ملوگ۔ (۱۸) ملوگ۔ (۱۹) ملوگ۔ (۲۰) ملوگ۔

۴۰۰

ممنوع التصرفات۔ (۱۷)۔ مذمہ وہ شخص جو آئندہ دخل دینے سے روک دیا جائے۔
 ممنون۔ دم۔ لون (۱۶)۔ مذمہ احسان کیا گیا۔ وہ جس پر احسان کیا گیا ہو۔ احسان مند۔ شکر گزار۔
 ممنون ہونا۔ (۱۷)۔ مصلح مرکب، شکر گزار ہونا۔ احسان مند ہونا۔
 ممنونیت۔ دم۔ کوئی ریت، (۱۸)۔ ف۔ (۱۹)۔ مٹا، احسان مندی۔
 ممنون۔ دم۔ مؤدب، (۱۵)۔ مذمہ ایک چھوٹا پردہ جس کے پیٹ پر کالی دھاریاں ہوتی ہیں۔ جھانپو۔
 ممولے چھنا۔ (۱۷)۔ محاورہ، بہت خاطر واقع کرنا۔ مارے خاطر کے کچھ چاہا۔ سر آنکھوں پر ٹھکانا۔
 مومی۔ (Mummy) دم۔ مٹی، (۱۸)۔ مٹا، لاش جو سالانہ محفوظ رکھی جائے، بچے پیار سے پال کر کہتے ہیں۔
 مویا (شمس)۔ شمس۔ دم۔ مٹا، شمس (۱۵)۔ مذمہ خاندانی بوی کاماموں۔
 مویا ساس۔ دم۔ مٹا، ساس، (۱۵)۔ مذمہ خاندانی بوی کی ماتی۔
 مویانا۔ دم۔ مٹا، (۱۶)۔ مٹا، بکری کا لونا، مٹی نہیں کرنا۔
 موینت۔ دم۔ مٹی، (۱۷)۔ مذمہ (۱)، مارتے والا (۲)، خدا تعالیٰ کا ایک نام۔
 موییرا۔ دم۔ مٹی، (۱۸)۔ مذمہ ایک گھیل پڑا بھاری سے مشابہ ہوتی ہے اور اگھ کی بنیادی کے لیے نہایت مفید دوا ہے۔
 موییرا۔ دم۔ مٹی، (۱۷)۔ مذمہ ماموں زاد۔ ماموں کا بیٹا۔
 موییرا۔ دم۔ مٹی، (۱۷)۔ مذمہ ماموں کی بیٹی۔
 موییرا۔ دم۔ مٹی، (۱۸)۔ مذمہ تمیز کیا گیا۔ پہچان گیا۔
 موییرا۔ دم۔ مٹی، (۱۷)۔ مذمہ تمیز کرنے والا۔ بھلے برس کو پہچانتے والا۔
 موییرا۔ دم۔ مٹی، (۱۷)۔ مذمہ (۱)۔ تمیز کرنے والی۔ تمیز کرنے والی وقت۔

من بھانا۔ ۱۷۔ صفت، مذمہ خوب خاطر۔ دل پسند۔
 من بھانا کھلے جگ بھانا پہننے، (۱۷)۔ من بھانا اپنی پسند کا کھانا چاہیے وہ لباس وہ پہننا چاہیے۔ جسے لوگ پسند کریں۔
 من بھاری کرنا۔ کوھنا۔ آداس ہونا۔ ٹکلین۔
 من بھاؤنا۔ من بھاؤنا۔ من بھاؤنا۔ من بھاؤنا۔ (۱۷)۔ صفت۔ مذمہ دیکھنے من بھانا۔
 من بھائے (چاہے، منڈیلا بلائے)۔ (۱۷)۔ من بھائے (۱)۔ صفت۔ مذمہ بہ ظاہر انکار ہے۔ آدپری دل سے انکار۔
 من بھر۔ (۱۷)۔ صفت، ایک من وزن۔ چالیس سیر وزن کے برابر، (۲)۔ خاطر خواہ دل کے موافق جی بھرا کر۔
 من بھر جانا۔ من بھرتا۔ (۱۷)۔ محاورہ، طبیعت سیر ہو جانا۔
 من بھر کا سر بھلائے ہیں پیسہ بھر کی زبان نہیں بھائی جاتی۔ (۱۷)۔ من بھرا، مفرد آدمی کی نسبت لہو لٹے ہیں جو سر ہلکا کر جا رہا ہے۔ مگر زبان سے جواب نہ دے۔
 من بھٹ جانا۔ (۱۷)۔ محاورہ، طبیعت بیزار ہو جانا۔ نفرت ہو جانا۔
 من چلا۔ (۱۷)۔ صفت، دل چلا۔ بہادر۔ دلیر۔ دلاور۔ سوزما۔ نڈر۔ بے خوف۔ بیباک۔
 من چلتا ہے۔ (۱۷)۔ من نہیں۔ (۱۷)۔ من چلا ہے متقدم کہ نہیں جھولتا ہے لیکن کچھ بو نہیں سکتا۔
 من چلتا۔ (۱۷)۔ محاورہ، دل چاہتا۔ کسی کی طرف دل کا رغبت کرنا، (۲)۔ دل قابو میں نہ رہنا۔ دلوانہ ہونا۔
 من چنگا تو کھوٹی میں گنگا۔ (۱۷)۔ من اگر دل ٹھیک ہے اعتقاد سچا ہے تو خدا ہر جگہ موجود ہے۔
 من چھوڑنا۔ (۱۷)۔ محاورہ، سانپ کا من نکال کر رکھ دینا۔
 من رنجین۔ (۱۷)۔ صفت، خوش گار۔ دل کا خوش کرنے والا۔ دل کو خوش کرنے کا فعل۔
 من سانپا تو سب سانپا۔ (۱۷)۔ من بھانا، اعتقاد ٹھیک ہو تو سب سب کا ٹھیک ہوتے ہیں۔
 من سمجھوتی۔ (۱۷)۔ صفت، اطمینان خاطر۔ دل کا سمجھ لینا۔
 من کا چیتلا۔ (۱۷)۔ مذمہ دل کا چاہنا۔ دل کی خواہش۔
 من کا میلا (کھوٹا)۔ (۱۷)۔ مذمہ بلائے۔ کہتے پروردہ۔ ریکار۔ مناقب۔
 من کچا کرنا۔ (۱۷)۔ محاورہ، صفت، ہانا۔ دل ٹوٹنا۔
 من کرنا۔ (۱۷)۔ محاورہ، دل چاہنا۔ خواہش کرنا۔ جی چاہنا۔
 من کھٹا ہونا۔ (۱۷)۔ محاورہ، طبیعت بیزار ہونا۔ جی بڑا ہونا۔
 من کی ماری۔ (۱۷)۔ صفت، مردہ دل۔ افسردہ دل۔
 من کی من میں رہنا۔ (۱۷)۔ محاورہ، دل کی حسرت دل ہی میں رہ جانا۔ ارطال پورا نہ کرنا۔
 من کی مویج۔ (۱۷)۔ صفت، دل کی لہر۔ دل کی تریگ۔
 من کے چھتے ہونا۔ (۱۷)۔ محاورہ، دل کی مراد پوری ہونا۔
 من کے کھوٹے چھوڑنا۔ (۱۷)۔ محاورہ، خیالی پھاڑ پھانا۔ دل ہی میں خوش ہونا۔

م۔ن

من۔ (۱۵)۔ مذمہ (۱)۔ جی۔ خاطر قلب۔ ضمیر (۲)۔ چالیس سیر کا وزن (۳)۔ سانپ کا ٹہرہ دم، انورس کی مینڈھ۔
 من اکتان جھنگا۔ (۱۷)۔ من بھانا، بھلائی سے بدن سوکھ گیا۔
 من اکتانا۔ (۱۷)۔ محاورہ، دل آنا۔ عشق ہونا۔ محبت ہونا۔
 من اکتانا۔ (۱۷)۔ محاورہ، جی سیر ہو جانا۔ گھرا نا۔ بے زار ہو جانا۔
 من اکتانا۔ (۱۷)۔ محاورہ، سانپ کو اپنے گھبرے کو منہ سے نکالنا۔
 من اکتانا۔ (۱۷)۔ محاورہ، دیکھنے میں اکتانا۔
 من امراؤ کم ولدی۔ (۱۷)۔ من بھانا، دل میں امیرا حوصلے ہیں مگر قسمت خراب ہے۔
 من پستا۔ (۱۷)۔ محاورہ، دل میں مسانا۔ دل میں جگہ کر لینا۔

من از بیگانگان برگزینا کم که با من هر چه کرد آس آشنایا کرد۔ (ن۔ نیش)
 مجھے غیر دل سے کوئی شکایت نہیں۔ میں اپنی ہی کا ستا ہوا ہوں۔
 من ترا حاجی بگویم تو مرا حاجی بھی بگو۔ (ن۔ نیش) میں مجھے حاجی کہتا ہوں تو
 مجھے حاجی کہہ۔ اس کو موقع پر لیتے ہیں جبکہ دو شخص ایک دوسرے کی تعریف
 کرنے لگتے ہیں۔

من چه می سراخیم وطنیوره من چه می سراخیم۔ (ن۔ نیش) میں کیا گدا ہوں
 اور میرا وطنیورہ کیا کارا ہے۔ اس وقت کہتے ہیں۔ جب کسی شخص کا بیان
 اس کی خیر کے خلاف ہو۔ کسی شخص کا بیان دوسرے سے مختلف ہو تو ایسے
 موقع پر کہتے ہیں۔

من خوب می شام پیراں یار سارا۔ (ن۔ نیش) میں بہتر گاریروں کو خوب جانتا
 ہوں یعنی میں گھار آدمیوں سے اچھی طرح واقف ہوں۔

من درجہ نیالہم و فلک درجہ خیال۔ (ن۔ نیش) میں کسی خیال میں ہوں اور آسمان کی
 خیال میں ہے۔ اس وقت مستعمل ہے جب کوئی امر منسوبے کی خلاف واقع
 ہو۔ صحیح ماورجہ خیال ہے۔ مگر مشہور بھی ہے۔

من نہ کوم شما حذر بکنید۔ (ن۔ نیش) میں تم سے نہیں کیا تم پر حذر
 کرنا۔ خود تکلیف اٹھا کر دوسروں کو نصیحت کرنا۔

من نہ کوم کہ این مکن آن کن، مصلحت ہیں دکار آسان کن۔
 (ن۔ نیش) میں نہیں کہتا یہ کہ اور وہ کر، مصلحت دیکھ اور جو کام
 آسان ہے وہ کر۔

من حرف جریں سے۔ (ن۔ نیش) میں سے۔ (ن۔ نیش) میں سے۔ (ن۔ نیش) میں سے۔
 کے (ن۔ نیش) میں سے۔ (ن۔ نیش) میں سے۔ (ن۔ نیش) میں سے۔

من اولہ الی آخرہ۔ (ن۔ نیش) میں سے اول سے آخر تک۔ (ن۔ نیش) میں سے اول سے آخر تک۔
 یا آہٹا۔

من بعد۔ (ن۔ نیش) میں بعد سے۔ (ن۔ نیش) میں بعد سے۔ (ن۔ نیش) میں بعد سے۔
 جلدی اچھی۔ (ن۔ نیش) میں بعد سے۔ (ن۔ نیش) میں بعد سے۔ (ن۔ نیش) میں بعد سے۔

من جانب اللہ۔ (ن۔ نیش) میں اللہ کی طرف سے۔ (ن۔ نیش) میں اللہ کی طرف سے۔ (ن۔ نیش) میں اللہ کی طرف سے۔
 خود۔ آپ ہی آپ۔

منجملہ۔ (ن۔ نیش) میں تمام فعل سب میں سے۔ (ن۔ نیش) میں تمام فعل سب میں سے۔ (ن۔ نیش) میں تمام فعل سب میں سے۔
 من جمیع الامور۔ (ن۔ نیش) میں تمام فعل سب میں سے۔ (ن۔ نیش) میں تمام فعل سب میں سے۔ (ن۔ نیش) میں تمام فعل سب میں سے۔

من کل وجہ۔ (ن۔ نیش) میں تمام فعل سب میں سے۔ (ن۔ نیش) میں تمام فعل سب میں سے۔ (ن۔ نیش) میں تمام فعل سب میں سے۔
 من کل۔ (ن۔ نیش) میں تمام فعل سب میں سے۔ (ن۔ نیش) میں تمام فعل سب میں سے۔ (ن۔ نیش) میں تمام فعل سب میں سے۔

من کل۔ (ن۔ نیش) میں تمام فعل سب میں سے۔ (ن۔ نیش) میں تمام فعل سب میں سے۔ (ن۔ نیش) میں تمام فعل سب میں سے۔
 بہر صورت۔

من کل وجہ۔ (ن۔ نیش) میں تمام فعل سب میں سے۔ (ن۔ نیش) میں تمام فعل سب میں سے۔ (ن۔ نیش) میں تمام فعل سب میں سے۔
 من کل وجہ۔ (ن۔ نیش) میں تمام فعل سب میں سے۔ (ن۔ نیش) میں تمام فعل سب میں سے۔ (ن۔ نیش) میں تمام فعل سب میں سے۔

من کل وجہ۔ (ن۔ نیش) میں تمام فعل سب میں سے۔ (ن۔ نیش) میں تمام فعل سب میں سے۔ (ن۔ نیش) میں تمام فعل سب میں سے۔
 من کل وجہ۔ (ن۔ نیش) میں تمام فعل سب میں سے۔ (ن۔ نیش) میں تمام فعل سب میں سے۔ (ن۔ نیش) میں تمام فعل سب میں سے۔

من کل وجہ۔ (ن۔ نیش) میں تمام فعل سب میں سے۔ (ن۔ نیش) میں تمام فعل سب میں سے۔ (ن۔ نیش) میں تمام فعل سب میں سے۔
 من کل وجہ۔ (ن۔ نیش) میں تمام فعل سب میں سے۔ (ن۔ نیش) میں تمام فعل سب میں سے۔ (ن۔ نیش) میں تمام فعل سب میں سے۔

من کل وجہ۔ (ن۔ نیش) میں تمام فعل سب میں سے۔ (ن۔ نیش) میں تمام فعل سب میں سے۔ (ن۔ نیش) میں تمام فعل سب میں سے۔
 من کل وجہ۔ (ن۔ نیش) میں تمام فعل سب میں سے۔ (ن۔ نیش) میں تمام فعل سب میں سے۔ (ن۔ نیش) میں تمام فعل سب میں سے۔

من کل وجہ۔ (ن۔ نیش) میں تمام فعل سب میں سے۔ (ن۔ نیش) میں تمام فعل سب میں سے۔ (ن۔ نیش) میں تمام فعل سب میں سے۔
 من کل وجہ۔ (ن۔ نیش) میں تمام فعل سب میں سے۔ (ن۔ نیش) میں تمام فعل سب میں سے۔ (ن۔ نیش) میں تمام فعل سب میں سے۔

من کے ہارے ہارے من کے جیتے جیتے۔ (ن۔ نیش) دل چھوڑ دینے
 سے کہ نہیں ہوتا جو مجھے ہی سے کام بنتا ہے۔

من لچھانا۔ (ن۔ نیش) دل کو مائل کرنا۔ دل کو لٹکھانا۔
 من لچھانا۔ (ن۔ نیش) دل کا خواہش کرنا۔

من مارو ہنا۔ (ن۔ نیش) دل کی خواہش اختیار میں کرنا۔ دل مسوس
 کر ہنا۔

من مارو کے بیٹھ رہنا۔ (ن۔ نیش) صبر کر کے رہ جانا۔ مایوس ہو کر
 بیٹھ جانا۔

من مارنا۔ (ن۔ نیش) صبر اختیار کرنا۔ دل کی خواہش دہانا۔
 من مانا۔ (ن۔ نیش) صفت۔ (ن۔ نیش) صفت۔ (ن۔ نیش) صفت۔

من ماننا۔ (ن۔ نیش) صفت۔ (ن۔ نیش) صفت۔ (ن۔ نیش) صفت۔
 من مانی۔ (ن۔ نیش) صفت۔ (ن۔ نیش) صفت۔ (ن۔ نیش) صفت۔

من مانی گھر جانی۔ (ن۔ نیش) اسے جاہل پر کہتے ہیں۔
 من مانی ہراو پانا۔ (ن۔ نیش) صفت۔ (ن۔ نیش) صفت۔ (ن۔ نیش) صفت۔

من مست۔ (ن۔ نیش) صفت۔ (ن۔ نیش) صفت۔ (ن۔ نیش) صفت۔
 من ملنا۔ (ن۔ نیش) صفت۔ (ن۔ نیش) صفت۔ (ن۔ نیش) صفت۔

من من بھر کے پاؤں۔ (ن۔ نیش) پاؤں کا ٹھوچ کہ بھاری ہو جانا بہت زیادہ
 تکان سے پاؤں کا بھاری ہو جانا۔

من موی۔ (ن۔ نیش) صفت۔ (ن۔ نیش) صفت۔ (ن۔ نیش) صفت۔
 من موی۔ (ن۔ نیش) صفت۔ (ن۔ نیش) صفت۔ (ن۔ نیش) صفت۔

من میٹھا۔ (ن۔ نیش) صفت۔ (ن۔ نیش) صفت۔ (ن۔ نیش) صفت۔
 من میٹھا۔ (ن۔ نیش) صفت۔ (ن۔ نیش) صفت۔ (ن۔ نیش) صفت۔

من میٹھا۔ (ن۔ نیش) صفت۔ (ن۔ نیش) صفت۔ (ن۔ نیش) صفت۔
 من میٹھا۔ (ن۔ نیش) صفت۔ (ن۔ نیش) صفت۔ (ن۔ نیش) صفت۔

من میٹھا۔ (ن۔ نیش) صفت۔ (ن۔ نیش) صفت۔ (ن۔ نیش) صفت۔
 من میٹھا۔ (ن۔ نیش) صفت۔ (ن۔ نیش) صفت۔ (ن۔ نیش) صفت۔

من میٹھا۔ (ن۔ نیش) صفت۔ (ن۔ نیش) صفت۔ (ن۔ نیش) صفت۔
 من میٹھا۔ (ن۔ نیش) صفت۔ (ن۔ نیش) صفت۔ (ن۔ نیش) صفت۔

من میٹھا۔ (ن۔ نیش) صفت۔ (ن۔ نیش) صفت۔ (ن۔ نیش) صفت۔
 من میٹھا۔ (ن۔ نیش) صفت۔ (ن۔ نیش) صفت۔ (ن۔ نیش) صفت۔

من میٹھا۔ (ن۔ نیش) صفت۔ (ن۔ نیش) صفت۔ (ن۔ نیش) صفت۔
 من میٹھا۔ (ن۔ نیش) صفت۔ (ن۔ نیش) صفت۔ (ن۔ نیش) صفت۔

من میٹھا۔ (ن۔ نیش) صفت۔ (ن۔ نیش) صفت۔ (ن۔ نیش) صفت۔
 من میٹھا۔ (ن۔ نیش) صفت۔ (ن۔ نیش) صفت۔ (ن۔ نیش) صفت۔

من میٹھا۔ (ن۔ نیش) صفت۔ (ن۔ نیش) صفت۔ (ن۔ نیش) صفت۔
 من میٹھا۔ (ن۔ نیش) صفت۔ (ن۔ نیش) صفت۔ (ن۔ نیش) صفت۔

من میٹھا۔ (ن۔ نیش) صفت۔ (ن۔ نیش) صفت۔ (ن۔ نیش) صفت۔
 من میٹھا۔ (ن۔ نیش) صفت۔ (ن۔ نیش) صفت۔ (ن۔ نیش) صفت۔

من میٹھا۔ (ن۔ نیش) صفت۔ (ن۔ نیش) صفت۔ (ن۔ نیش) صفت۔
 من میٹھا۔ (ن۔ نیش) صفت۔ (ن۔ نیش) صفت۔ (ن۔ نیش) صفت۔

من میٹھا۔ (ن۔ نیش) صفت۔ (ن۔ نیش) صفت۔ (ن۔ نیش) صفت۔
 من میٹھا۔ (ن۔ نیش) صفت۔ (ن۔ نیش) صفت۔ (ن۔ نیش) صفت۔

من میٹھا۔ (ن۔ نیش) صفت۔ (ن۔ نیش) صفت۔ (ن۔ نیش) صفت۔
 من میٹھا۔ (ن۔ نیش) صفت۔ (ن۔ نیش) صفت۔ (ن۔ نیش) صفت۔

من میٹھا۔ (ن۔ نیش) صفت۔ (ن۔ نیش) صفت۔ (ن۔ نیش) صفت۔
 من میٹھا۔ (ن۔ نیش) صفت۔ (ن۔ نیش) صفت۔ (ن۔ نیش) صفت۔

من میٹھا۔ (ن۔ نیش) صفت۔ (ن۔ نیش) صفت۔ (ن۔ نیش) صفت۔
 من میٹھا۔ (ن۔ نیش) صفت۔ (ن۔ نیش) صفت۔ (ن۔ نیش) صفت۔

منہا - رتی - منہ -

منہا - برنی - روم - نا - ع - ا - مذ - مکرر معطر کے قریب ایک مقام جو پہاڑیوں میں واقع ہے اور جہاں حاجی دس سے بارہ ذی الحجہ تک قربانی کرتے ہیں -

منہا - رمن - نا - ع - ا - مذ - ایسا سے جوٹے پٹے کہتے ہیں - لاڈلا بیانا - نفا -

منہاب - ر - ع - ا - مذ - کھڑے - کوئی کی جگہ - قائم مقام - ہونا -

منہا پر - روم - نا - ع - ا - مذ - منبر کی جمع -

منہا بلع - ر - ع - ا - مذ - منبع کی جمع -

منہات - روم - نہات - ر - ع - ا - مذ - عرب کے ایک مشہور نام نہا زمانہ جاہلیت میں جس کی پریشانی جاتی تھی -

منہاجات - روم - نا - ع - ا - مذ - (ع - ا - مذ) سرگوشی - کا نام چھوٹی رو - دعا عرض التجار ۳۱ - وہ نظم جس میں خدا کی تعریف اور اپنے ہی عاجزی کا اظہار کر کے دعا مانگی جائے -

منہا جاتی - روم - نا - ع - ا - مذ - (ع - ا - مذ) منہاجات کرنے والا -

منہا زممت - روم - نا - ع - ا - مذ - زممت - (ع - ا - مذ) ہم نشینی - مصاحبت -

منہادی - روم - نا - ع - ا - مذ - ایک کا لگایا - بلا لگایا - وہ جس کو پکاریں -

منہا لوسی - روم - نا - ع - ا - مذ - نا - ع - ا - مذ - اعلان کرنے والا - دھندورچی - ۲۲ - مذ - اول کی آواز جو اس غرض سے ہو کہ لوگ آگاہ ہو جائیں ۳۲ - وعظ - دن کی تلقین زار - روم - اذ - مذ - ڈی - ڈھندورا -

منہادی پھرنا ہونا - (ع - ا - مذ) اعلان ہونا - ڈھندھی پٹنا -

منہادی پھیرنا کرنا - (ع - ا - مذ) اعلان عام کرنا - ڈھندورا پٹنا -

منہا ویل - روم - نا - ع - ا - مذ - (ع - ا - مذ) منہا ویل کی جمع - چڑیاں - دستار - رومال -

منہا - روم - نا - ع - ا - مذ - (ع - ا - مذ) نازک جگہ - چراغ دان - لالہین ۳۱ - اذ - ناستون - ملاطہ پہلی پایہ - کھم - بلند تون جو مسجد کے پہلو میں بنائے جاتے ہیں - ماڈنہ - اذان دینے کی جگہ - مسجد کے اندر اذنیاستون -

منہا ز عت - روم - نا - ع - ا - مذ - عت - (ع - ا - مذ) جھگڑا - قضیہ - منہا - مکرر بحث -

منہا زع فیہ - روم - نا - ع - ا - مذ - زع فیہ - (ع - ا - مذ) ہوا جس کے لیے جھگڑا - کو -

منہا نزل - روم - نا - ع - ا - مذ - نزل - (ع - ا - مذ) منزل کی جمع - آنے کی جگہیں - منہا -

مکانات -

منہا نزل قہر - روم - نا - ع - ا - مذ - (ع - ا - مذ) راستہ پر زین کے گوبچر لگا تا ہے اسے اٹھائیں حضور میں تقسیم کیا گیا ہے انہیں منہا نزل کہتے ہیں - بیشتر - نہتر -

منہا سب - روم - نا - ع - ا - مذ - سب - (ع - ا - مذ) نعمت کہنے والا - موزوں - لائق - نیر - شایان ۲۲ - ٹھیک - درست - معقول - بہتر ۳۱ - لازم - جائز - روا -

منہا سب نہیں - درست نہیں - موزوں نہیں - شایان نہیں -

منہا سبیت - روم - نا - ع - ا - مذ - سبیت - (ع - ا - مذ) صفت ۱۱۲ - (ع - ا - مذ) باہمی تعلق -

علاقہ - موزونیت و نسبت -

منہا سبیت رکھنا - (ع - ا - مذ) علاقہ رکھنا - یا بھی لگاؤ - آپس میں

نسبت ہونا -

منہا سبہ - روم - نا - ع - ا - مذ - سبہ - (ع - ا - مذ) فقہ اسلامی میں ایک فائدہ جس کے دوسے دلائل کے حصے نہیں ہوتے ہیں -

منہا سبک - روم - نا - ع - ا - مذ - سبک - (ع - ا - مذ) خشک کی جمع - حج کے ارکان میں

کی عبادت کے مقامات -

منہا صیب - روم - نا - ع - ا - مذ - صیب - (ع - ا - مذ) منصب کی جمع - سبے - عہدے - منہا صحت - روم - نا - ع - ا - مذ - صحت - اول سے نصیحت کرنا - سمجھانا -

منہا صفت - منہا صغہ - روم - نا - ع - ا - مذ - صفت - (ع - ا - مذ) برابر کے درختے - نصف لہنی کرنا - اذہوں اذہ کرنا -

منہا ط - روم - نا - ع - ا - مذ - (ع - ا - مذ) مقصد ۲۲ - بنیاد -

منہا ط و عوی - روم - نا - ع - ا - مذ - (ع - ا - مذ) دعوے کی بنیاد - بنا سٹے دعوئی -

منہا ظر - روم - نا - ع - ا - مذ - منظر کی جمع - نظاسے -

منہا ظر - روم - نا - ع - ا - مذ - منظر ہونے والا - محبتی - متکاری -

منہا ظرہ - روم - نا - ع - ا - مذ - نا - ع - ا - مذ - (ع - ا - مذ) بحث - مباحثہ - مکرر ۲۲ - وہ علم جس میں بحث کرنے کے قوانین درج ہیں ۳۱ - کسی چیز کی حقیقت و ماہیت کے واسطے باہم فکر کرنا - جمع مناظرات -

منہا ظرہ - روم - نا - ع - ا - مذ - (ع - ا - مذ) آپس میں نظیں پڑھنا - جمع - مناظرات -

منہا ظرہ - روم - نا - ع - ا - مذ - (ع - ا - مذ) سفلی - جمع - راستے - رشتے - روزی - سوراخ -

مسامات

منہا فر - روم - نا - ع - ا - مذ - فرت کرنے والا -

منہا فرت - روم - نا - ع - ا - مذ - فرت - (ع - ا - مذ) فرت - گن - پرہیز -

منہا فسنت - روم - نا - ع - ا - مذ - فسنت - (ع - ا - مذ) ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرنا -

منہا فغ - روم - نا - ع - ا - مذ - فغ کی جمع - فائدے -

منہا فغ بابی - منہا فغ فرادہ - روم - نا - ع - ا - مذ - فغ فائدے -

منہا فغ خام - روم - نا - ع - ا - مذ - فغ خام - اصل رقم اور نفع شامل ہیں -

منہا فغ عمومیہ - روم - نا - ع - ا - مذ - فغ عمومیہ کے فائدے -

منہا فغ مستمرہ - روم - نا - ع - ا - مذ - فغ مستمرہ جو ہمیشہ جاری رہیں -

منہا فغ - روم - نا - ع - ا - مذ - فغ دینے والا -

منہا فغہ - روم - نا - ع - ا - مذ - فغہ بابی - فائدہ -

منہا فغ - روم - نا - ع - ا - مذ - فغ اتفاق کہنے والا - ریاکار - وہ شخص جس کے دل میں کچھ ہوزبان پر کچھ ہوا نہیں دوست باطن میں دشمن - شریعت اسلامی میں وہ شخص جو بظاہر مسلمان مگر دل سے کافر ہو - جمع - منہا فغین -

منہا فغت - روم - نا - ع - ا - مذ - فغت - (ع - ا - مذ) باطن کا ظاہر کے خلاف ہونا - ریاکاری - جھگڑی - ظاہر میں دوستی باطن میں دشمنی -

منہا فنی - روم - نا - ع - ا - مذ - فنی کرنے والا - خلاف - ضد -

منہا فرب - روم - نا - ع - ا - مذ - فرب - (ع - ا - مذ) مقبوت کی جمع - (ع - ا - مذ) تعریفیں - خوبیاں -

منہا فشرہ - روم - نا - ع - ا - مذ - فشرہ - (ع - ا - مذ) اوصاف ۲۱ - اہمیت اور اہمیت کی لگائی ہوئی - منہا فشرہ - روم - نا - ع - ا - مذ - فشرہ - (ع - ا - مذ) جھگڑا - قضیہ - نزاع - جھگڑا - جمع - منہا فشرتات -

منہا فقص - روم - نا - ع - ا - مذ - فقص کرنے والا - مخالفت - ناموافق -

منہا فقصہ - روم - نا - ع - ا - مذ - فقصہ - (ع - ا - مذ) ایک دوسرے کی بات کو ٹوڑنا - بحث - مباحثہ - جھگڑا -

مُنْتَسِب - رُمن - ت - سب (ع) ۱۷ - اذ نسبت رکھنے والی - لگا دیکھنے والا -
 مُنتَشِر - رُمن - ت - شتر (ع) ۱۸ - مذ بکھرنے والا - پھیلنے والا - پراگندہ ہونے والا
 (۲) متفرق تیز بہر (۳) حیران پریشان -
 مُنتَقِر کرنا - (ع) ۱۹ - مع مرکب - کچھینا - پراگندہ کرنا - تیز تر کرنا -
 مُنتَقِر - رُمن - ت - ظر (ع) ۲۰ - مذ استعارہ کرنے والا - راہ کھنڈنے والا - امید
 دار - اُس لگانے والا -
 مُنتَقِر حکم (ع) ۲۱ - اذ حکم کا انتظار کرنے والا - نہایت فرمانبردار -
 مُنتَقِر رکھنا (ع) ۲۲ - محاورہ انتظار میں رکھنا - امید دار بنانا - راہ دکھانا -
 مُنتَقِر رہنا (ع) ۲۳ - محاورہ راہ دیکھنا - امید میں رہنا -
 مُنتَقِر - رُمن - ت - سب (ع) ۲۴ - اذ منتظر -
 مُنتَقِر - رُمن - ت - ظم (ع) ۲۵ - مذ انتظام کرنے والا - اہتمام کرنے والا - ظم
 اتمتھم (۲) کفایت شمار - جزیرس - جمع - انتظیون -
 مُنتَفِع - رُمن - ت - فح (ع) ۲۶ - مذ نفع حاصل کرنے والا - فائدہ
 اٹھانے والا -
 مُنتَفِع - رُمن - ت - بنی (ع) ۲۷ - اذ فائدہ پہنچانے والا - نیت ہونے والا -
 مُنتَقِل - رُمن - ت - جن (ع) ۲۸ - اذ امکان بدلنے والا - ایک جگہ سے دوسری جگہ
 جانے والا - (منتقلات) ایک جگہ سے دوسری جگہ گیا ہوا -
 مُنتَقِل الیہ (ع) ۲۹ - مذ جس کی طرف کوئی چیز یا معاملہ منتقل کیا گیا ہو -
 مُنتَقِل بحرنا (ع) ۳۰ - مع مرکب بدلنا - تبدیل کرنا - ایک کے نام سے دوسرے
 کے نام پر کرنا - بیع کرنا -
 مُنتَقِم - رُمن - ت - قم (ع) ۳۱ - اذ انتقام لینے والا - بدل لینے والا - عوض لینے والا
 خدا تعالیٰ کا ایک صفاتی نام - جمع انتقمیون -
 مُنتَقِم حقیقی (ع) ۳۲ - اذ اصل پر لینے والا - خدا تعالیٰ -
 مُنتَقِم اچھائی (ع) ۳۳ - اذ ظاہری بدل لینے والا - حاکم - بادشاہ -
 مُنتَقِلے (ع) ۳۴ - اذ انتہا کہ گیا - انتہا کہ گیا ہوا - انتہا کہ پہنچا ہوا (۲)
 اور اکمل تمام مکمل (۳) نتیجہ - انجام - نمرہ - پھیل حاصل -
 مُنتَقِب - رُمن - ت - ہی (ع) ۳۵ - اذ انتہا کو پہنچنے والا (۲) وہ شخص جو تحصیل علم
 مکمل کر چکا ہو (۳) کامل - لائق - عالم - خاص - جمع - متہبان -
 مُنتَقِب - رُمن - ت - ہی (ع) ۳۶ - اذ منشا - عاجزی - خوشامد -
 مُنْط (Minute) ۱ - م - نٹ (ع) ۳۷ - اذ گھنٹے کا ساتواں حصہ -
 ساتھ مسیکیز کا وقفہ -
 مُنْط (Mint) ۱ - م - نٹ (ع) ۳۸ - اذ سکاڑنے کی جگہ -
 مُنْطور - رُمن - ت - نور (ع) ۳۹ - مذ کن بندھا موتی - ڈورنا مُنْطور (۲) پھیلنا
 مُنتَشِر (۳) نشر -
 مُنْج (ع) ۴۰ - بے نور -
 مُنْجَا - رُمن - جا (ع) ۴۱ - مذ پتنگ - چارپائی -
 مُنْجَا - رُمن - جا (ع) ۴۲ - مع راضی ہونا -
 مُنْجِدھار (ع) ۴۳ - اذ دریا یا دریا کے بیچ کی دھار (۲) (صفت)
 مصیبت - عین مصیبت کی جگہ -
 مُنْجِذِب - رُمن - ت - جذب (ع) ۴۴ - مذ جذب ہونے والا -

مُنْجِر - رُمن - جر (ع) ۴۵ - اذ کہینچا ہوا -
 مُنْجِلَا - رُمن - ج - لآب (ع) ۴۶ - مذ گندہ پانی ڈالنے کی جگہ (۲)
 گندہ پانی -
 مُنْجِلَا - رُمن - ق - بی (ع) ۴۷ - اذ روشن - ظاہر - آشکار -
 مُنْجِم - رُمن - ج - جم (ع) ۴۸ - مذ ستاروں کا علم جانے والا - نجومی - جوتشی - اختر
 شناس - جمع - منجمین -
 مُنْجِذ - رُمن - ج - بد (ع) ۴۹ - اذ سردی سے جھماکا - بستہ -
 مُنْجِذ ہونا (ع) ۵۰ - مع مرکب سردی سے جھماکا ہونا -
 مُنْجِئ - رُمن - یئ (ع) ۵۱ - مذ دانتوں کے صاف کرنے کا سفوف -
 مُنْجِئَا - رُمن - نا (ع) ۵۲ - مع رگڑکھات ہونا - اہلنا ہونا (۲) صیقل ہونا (۳)
 شائستہ ہونا (م) تجربہ کار ہونا -
 مُنْجِئِش - رُمن - ش - ن (ع) ۵۳ - اذ ایک آلہ جس سے بڑے بڑے پتھر چھینکے
 جاتے تھے - سنگاری کی قدیم دستی مشین -
 مُنْجِجَا - رُمن - ج - جا (ع) ۵۴ - مذ کلاہی کا ستوتہ - چمکی (۲) چرخے کا درمیانی
 حصہ - جس کے اوپر مال رہتی ہے - ایٹرنل کے بیچ کی کلاہی (۲)
 پتنگ - چارپائی -
 مُنْجِجَا ڈالنا (ع) ۵۵ - مع کسی کام کو آئندہ کے لیے اٹھار کھنا - کام میں توقف
 ڈالنا - دیر لگانا -
 مُنْجِجَا - رُمن - ج - جار (ع) ۵۶ - مع درمیان (ع) درمیان -
 مُنْجِجِلَا - رُمن - ج - لا (ع) ۵۷ - صفت درمیان کا بیچ کا -
 مُنْجِجِلَا روزہ (ع) ۵۸ - مذ رمضان شریف کا پورے عموماً روزہ -
 مُنْجِجِلَا - رُمن - ج - لی (ع) ۵۹ - صفت درمیان کی سٹکی -
 مُنْجِجِلَا - رُمن - نا (ع) ۶۰ - مع دیکھنے - سننا -
 مُنْجِجِلُو - رُمن - ج - ل (ع) ۶۱ - صفت اٹھنا - درمیانی -
 مُنْجِجِلُو - رُمن - ج - ل (ع) ۶۲ - صفت پڑنا - چھوٹا - درمیانہ - متوسط
 (۲) (۱) اذ اوسط درجے کا دیکھنا - رہ لفظ جاندا چیز کے لیے
 مُنْجِجِلُو (مستعمل نہیں ہے)
 مُنْجِجِلُو - رُمن - ج - ل (ع) ۶۳ - اذ ایک قسم کی چھوٹی پہلی (۲)
 مہانہ قدر کی عورت -
 مُنْجِجِلُو - رُمن - ج - ل (ع) ۶۴ - صفت -
 مُنْجِجِلُو - رُمن - ج - ل (ع) ۶۵ - اذ اختلاف - پیچیدگی -
 مُنْجِجِلُو - رُمن - ج - ل (ع) ۶۶ - اذ دیرالتوا - وقفہ - جو صیل - تعویذ -
 مُنْجِجِلُو پڑنا (ع) ۶۷ - اذ دیر پڑنا - وقفہ ہونا - دیر لگانا -
 مُنْجِجِلُو ڈالنا (ع) ۶۸ - مع دیکھنے - تمہا ڈالنا -
 مُنْجِجِلُو - رُمن - ج - ل (ع) ۶۹ - اذ دیر پڑنا - چھوٹا - چپ چاپ -
 مُنْجِجِلُو رات (ع) ۷۰ - اذ سنسن رات - ڈھانڈی رات -
 مُنْجِجِلُو - رُمن - ج - ل (ع) ۷۱ - اذ پیش کی دو کٹوریوں جو طبلے کے ساتھ بجائی
 جاتی ہیں -
 مُنْجِجِلُو - رُمن - ج - ل (ع) ۷۲ - اذ پھیرے والا (۲) خم کھایا ہوا - ترچھا
 ٹیڑھا - بائیں - سرکش - غدار -

مُنْدُوب - (مُن - دُوب، (ع - ۱) منڈ گھیر لینے والا، موت بے شرط
 مُنْدَهْر - (مُن - دَهْر، (ق - ۱) منڈ مندر مکان -
 مُنْدَهْیَر - (ق - دیکھو "مندھر"
 مُنْدِی - (مُن - دِی، (ہ - ۱) منڈ گساد ہزاری، مال کم نکالنا -
 مُنْدِیَل - (مُن - دِیَل، (ع - ۱) منڈ (مٹ) طلالی پکڑی، نگی - سہری دستار، تلیہ
 دو مال - (مُو جھار، ۳، کرکا چنکا - بیٹی -
 مُنْدُ - (ہ - ۱) منڈ (د)، سر - گھوپری (۲)، ایک راکشس (۳)، سر کردہ
 سردار - سرغز - استاد، درخت جس کے پتے گر گئے ہوں
 (۵)، شوخ - بے حیاد (ق) -
 مُنْدُ جانا - (۱) محاورہ (لٹ جانا -
 مُنْدُ چلنا - (۱) منڈ چلنا - (۲) صفت ایک قسم کے فقیر جو پیر نہ ملنے پر اپنے سر پر
 بدن کوڑھی کر لیتے ہیں - مندی - بی -
 مُنْدُ چڑا ہن - (۱) صفت - (۲) ٹھیلان -
 مُنْدُ ڈالنا - (مُن - ڈا، (ہ - ۱) منڈ بنگال کی ایک مشہور مٹھائی (۲)، ایک قسم کی چپاتی (۳)
 (۳) کھانسی چھٹی -
 مُنْدُ اڑنا - (مُن - اڑ، (ہ - ۱) صفت (منڈا ہوا سر - وہ آدمی جس کا سر منڈا ہوا
 ہو (۲) درخت جس کی شاخیں نہ ہوں (۳)، جانور جس کے سینک
 نہ ہوں (۴)، منیار - گنبد - مندر - گرجا جس پر کلس نہ ہو (۵)، ایک قسم
 کا جوتا جس کی نوک نہیں ہوتی (۶)، (پن - ۱) منڈ (لا کا - بچہ - ۲) بچک
 کا سرا -
 مُنْدُ اسنا - (مُن - ڈا، (ہ - ۱) منڈ پھینا - بگڑی - عامہ - دستار -
 مُنْدُ اسنا باندھنا - (۱) محاورہ (بگڑی باندھنا (۲)، سر جھٹا -
 منڈا سا بھرانا - (۱) محاورہ (ق - مص) پر ہم ہونا - بے مروی کرنا -
 منڈا سا کسنا - (۱) محاورہ (دیکھئے منڈا سا باندھنا -
 مُنْدُ اُٹنا - (مُن - ڈا، (ق - ۱) صفت (ق - ۱) موجودات ظاہر شدہ
 (۲) دنیا - جہان -
 مُنْدُ اُٹنا - (مُن - ڈا، (ق - ۱) مص) استرا پھر دانا، بال صاف کرنا -
 مُنْدُ اُٹی - (مُن - ڈا، (ہ - ۱) منڈ (مٹ) ہونڈے کا کام - (۲) منڈنے
 کی اُبرت -
 مُنْدُ پ - (مُن - ڈپ، (س - ۱) منڈ (د) جگہ جہاں بیاہ وغیرہ کی کافی رونق
 ہو - شامیانہ -
 مُنْدُ ف - (مُن - ڈف، (ق - ۱) منڈ منڈپ - شامیانہ -
 مُنْدُ گ - (مُن - ڈگ، (س - ۱) منڈ انالی - حجام -
 مُنْدُ گری - (مُن - ڈگ، (ہ - ۱) منڈ (مٹ) گھٹنوں پر سر دے کر بیٹھنے
 کا طریقہ -
 مُنْدُ گڑی مارنا - (۱) محاورہ (گھٹنوں میں سر دے کر سونا - اٹوائی - کھٹوائی لے کر پڑ
 جانا - ٹھیلین حالت میں سونا -
 مُنْدُ گول - (مُن - ڈول، (س - ۱) منڈ گھرا - دار - پکڑ گول (۲) گول خیر یا خیر (۳) احاط
 موبہ - شلحہ - پرکندہ، نمبر دار، گاؤں کا پجاری (۵) گردش -
 مُنْدُ گول باندھنا - (۱) محاورہ (د) حرمٹ کرنا - حلقہ باندھنا - (۲)

مُنْدُ حصر - (مُن - ح - صر، (ع - ۱) منڈ گھیر لینے والا، موت بے شرط
 مُنْدُ حصر - (مُن - ح - صر، (ع - ۱) منڈ گھیر لینے والا، موت بے شرط
 مُنْدُ حصر علیہ - (ع - ۱) منڈ جس پر موت ہو -
 مُنْدُ حشری - (مُن - ح - ہر، (ع - ۱) منڈ (مٹ) جھکا ہوا - خمیدہ - ٹیڑھا، ڈبلا، لغز -
 کدور - نجیف -
 مُنْدُ حوس - (مُن - حوس، (ع - ۱) منڈ بدرخت - بدر نصیب (۲) بڑا - بد
 زشت (۳) کرودہ - گھناؤنا -
 مُنْدُ حشر - (مُن - حشر، (ع - ۱) منڈ تختیاں - ناک کا سوراخ -
 مُنْدُ حشر - (ع - ۱) صفت (د) جانور جو کھٹنے سے مراد ہو -
 مُنْدُ آق - صفت (مٹ) -
 مُنْد - (ق - لائق) لائق صفت نسبت پر کسی اسم کے بعد آ کر اسے صفت
 بنا دے - اور والا - صاحب کے معنی دے جیسے دانش مند -
 احسان مند وغیرہ -
 مُنْد ا - (مُن - دا، (ہ - ۱) صفت (کم) ہلکا، دھما - دم دم (۲) استنا - ارزاں -
 مندا بیچنا - (۱) محاورہ (استنا بیچنا - ارزاں فروخت کرنا -
 مندا پڑ جانا - (۱) مندا پڑنا - (۱) محاورہ (دھیا ہونا - سست ہونا - ڈھیلنا ہونا (۲)
 ماند ہونا - دم دم پڑنا، ارزاں ہونا - سستا ہونا -
 مندا لگانا - (۱) محاورہ (کم قیمت پر بیچنا - سستا بیچنا -
 مندا ہونا، (۱) مص مرکب (سستا ہونا - ارزاں ہونا -
 مُنْد ا - (مُن - دا، (ق - ۱) منڈ (گلا - رلوڑ -
 مُنْد ا - (مُن - ڈا، (ہ - ۱) منڈ گھر مکان - محل (۲) شوال - معبد پرستش گاہ -
 مُنْد ا - (مُن - ڈا، (ہ - ۱) منڈ (د) جو کیوں کے کان کا کندل (۲) کان
 کا ایک زیور -
 مُنْد ارج - (مُن - رڈ، (ع - ۱) صفت (د) کی گئی - لکھا ہوا -
 مُنْد ارجحہ - (مُن - رڈ، (ع - ۱) صفت (د) بے والا درج کیا گیا بیچ مندرجہ -
 مُنْد ارجہ بالا - (ع - ۱) صفت (د) پر لکھا ہوا -
 مُنْد اریس - (مُن - ڈا، (ع - ۱) منڈ (مٹ) ہوا - کانا ہوا - پھٹا ہوا (۲) بخار
 کیا ہوا (۳) گھسا ہوا -
 مُنْد اری - (مُن - ڈا، (ہ - ۱) منڈ (مٹ) چھلا جو ہندوکان میں ڈالتے ہیں (۲) انگلی میں
 پسینے کا چھلا - انگوٹھی -
 مُنْد اریا - (مُن - ڈا، (ہ - ۱) منڈ (مٹ) مندر کی ک تصنیف چھٹی انگوٹھی -
 مُنْد ارفحہ - (مُن - ڈرفحہ، (ع - ۱) صفت (د) دفع ہونے والا - ڈور ہونے والا -
 مُنْد ازل - (مُن - ڈا، (ہ - ۱) منڈ (مٹ) (مٹ) کچا، (ع - ۱) صفت (د) جو عمل پڑھنے والے مخالفت
 کی خاطر اپنے گرد بنا لیتے ہیں دم جیتنے - منبع - سوتا -
 مُنْد ا - (مُن - ڈا، (ہ - ۱) منڈ (مٹ) درخت کا وہ حصہ جو جڑ سے لے کر شاخ
 تک ہوتا ہے - تنہ -
 مُنْد ایل - (مُن - ڈیل، (ع - ۱) منڈ سمیرنے والا زخم -
 مُنْد انا - (مُن - ڈا، (ہ - ۱) منڈ (مٹ) بیچنا (۲) بیچنا جیسے دروازہ مندا -
 (۳) غائب ہونا - چھینا -

یونی (۲) وہ جانور جس کے سینکڑوں بچوں (۳) سے لڑکی کی جوتی (۴) ایک یونی (۵) سرگھوپری۔
 منڈی لولنا (۱۶) محاورہ (عزاد سے سرا دینا کرنا۔
 منڈیا نا۔ (منڈ) یا نا۔ (۶) (میں) کھلت لگانا، فائڈی لگانا، مانڈنا چاول کی پیچ پیشتہ
 دفرہ سے بڑے پاکھڑ کو سمٹ بنا کر صاف کرنا۔
 منڈیا منڈ۔ یا (۵)۔ (۱۰) (منڈ) تصغیر چھوٹا سا سردی کھوپری۔
 منڈیٹ (Mandate) (من) ڈیٹ، (۱) ایک (۱۰) منڈ حاکم
 عدالت کا حکم۔ ہدایت (۲) حق و کالت۔ (۱) (من) اقوام کی طرف سے
 کسی ریاست کو کسی ملک پر حکومت کرنے کا عارضی اختیار (۳)۔
 (قانون) معاہدہ جس کی رو سے کوئی شخص بلا معاوضہ کسی خدمت
 کے انجام دینے کا اقرار کرے۔
 منڈیر (من) ڈیر (۱۰) (منڈ) دیوار کا اڈر کا حصہ جو ڈھلان ہو جسے (۲)۔
 پشتہ۔ یمنڈھ۔
 منڈیر باندھنا (۱۶) محاورہ (پشتہ باندھنا۔ یمنڈ بنا۔ ذرا سی دیوار اٹھا
 کر حد بنانا۔
 منڈیری (من) ڈے۔ (۱۰) (منڈ) منڈیر کی تصغیر۔
 منڈینا (من) ڈے۔ (۱۰) (منڈ) شوخی، بے حیائی۔
 منڈیا (من) ڈا۔ (۱۰) (منڈ) ڈول۔
 منڈیل (من) ڈل۔ (۱۰) (منڈ) اتنے کی جگہ۔ ٹھہرنے کا مقام۔ سرائے
 ٹھکانہ۔ مسافر خانہ۔ چٹاؤ (۲)۔ ایک دن کا سفر۔ مرحلہ (۳)۔ گھر۔ مکان۔
 مسکن (۴)۔ مکان کا ایک درجہ (۵)۔ چاند کا گھر (۶)۔ (۱۰) قرآن مجید کے سات
 حصوں میں سے ایک حصہ۔ جمع، منازل۔
 منزل اٹھانا (۱۶) محاورہ (مکان بنانا۔
 منزل آڈل (۱۰) (منڈ) پہلی منزل۔ مہماؤ۔ موت۔ قبر۔
 منزل بہ منزل (۱۰) (منڈ) تابع فعل، پڑاؤ پڑاؤ۔ ایک ایک
 پڑاؤ۔ درجہ بدرجہ۔
 منزل بھاری ہونا (۱۶) محاورہ (سفر کا مشکل ہونا۔
 منزل پر پہنچنا (۱۶) محاورہ (اصل مقام پر پہنچنا۔
 منزل دراز ہونا (۱۶) محاورہ (معمولی مسافت کا لمبا معلوم ہونا۔
 منزل دینا (۱۶) محاورہ (جہاز سے کورسے میں ذرا سی دیر کے لیے رکھ دینا۔
 ٹرڈے کو آرام دینا۔
 منزل طے ہونا (۱۶) محاورہ (منزل پر پہنچنا۔ ٹھکانے پر پہنچنا۔
 منزل کٹنا (۱۶) محاورہ (راستہ طے کرنا۔
 منزل کٹنا (۱۶) محاورہ (سفر طے ہونا۔ مسافت طے ہونا۔
 منزل کھٹنا (۱۶) محاورہ (۱) (منڈ) منزل کڑی ہونا۔ راستہ کا دشوار ہونا۔
 سفر کا مشکل ہونا۔
 منزل کھولی ہونا (۱۶) محاورہ (راستہ میں تھکنے والی منزل تک ٹھیک وقت
 پر پہنچ سکا۔ مقام مقصود تک پہنچنے سے روکنا۔
 منزل کرنا (۱۶) محاورہ (۱) ایک پڑاؤ کا راستہ چلنا (۲)۔ کچھ چل کر ٹھہرنا۔
 منزل گاہ (۱۰) (منڈ) آخر سے کی جگہ۔ قیام کرنے کی جگہ۔ (۲) گاہ

انڈھیرا جانا۔
 منڈلاتے منڈلاتے پھیرنا۔ (۱۶) محاورہ (ڈالنا ڈول چھڑنا۔ ادھر ادھر
 مارے مارے پھیرنا۔ ارد گرد بگڑھلنا۔
 منڈلانا۔ (منڈ) لانا۔ (۱۶) (منڈ) حلقہ باندھ کر پھیرنا، گول
 دائروں میں اڑنا (۳)۔ بادل کا گھبرانا۔
 منڈلی (منڈلی) (۱۰) (منڈ) گروہ۔ جنہا جماعت۔ ٹھنڈ۔
 منڈلی (منڈ) (۱۰) (منڈ) عورت، یونی عورت۔ وہ عورت جس
 کے سر پر بال نہ ہوں۔
 منڈن (منڈن) (۱۰) (منڈ) سر کا منڈ یا جانا (۲)۔ پیچھے کے بالوں کا
 پہلی دفعہ منڈا یا جانا۔
 منڈنا۔ (منڈ) نا۔ (۱۰) (منڈ) جماعت بنانا۔ بال منڈے جانا (۲)۔ چوری ہونا۔ لٹنا
 (۳)۔ دھوکے میں گرفتار ہونا۔
 منڈنا (۱۰) (منڈ) نا۔
 منڈنی (منڈنی) (۱۰) (منڈ) وہ غلہ جس پر پہلے چلائے جاتے ہیں۔
 منڈی (منڈ) (۱۰) (منڈ) عورت جس کا سر منڈا لیا ہو (۲)۔ بد بخت عورت
 (۳)۔ وہ عورت جس کا خاندان مر گیا ہو۔ راند ہو۔
 منڈوا۔ (منڈ) (۱۰) (منڈ) ایک ادنیٰ قسم کا نظر (۲)۔ تھیٹر۔ تماشا گاہ۔
 پنڈال۔ شامیانہ۔
 منڈوانا۔ (منڈ) نا۔ (۱۰) (منڈ) بال صاف کرنا، چوری کرنا۔ لٹوانا۔
 ٹھکانا (۳)۔ دھوکے سے فریب کرنا۔
 منڈوکا۔ (منڈ) ڈوکا (۱۰) (منڈ) عارضی۔ پور۔ دلہانہ۔
 منڈھا۔ (منڈ) ڈھا (۱۰) (منڈ) وہ سائبان یا شامیانہ جو ہندوؤں میں
 شادی کے روز بطور رسم تانا جاتا ہے اور جس کے نیچے دو لہاؤں
 کے پیرے ہوتے ہیں (۲)۔ ایک قسم کے گیت جو ڈھن کی مرضی
 کے وقت گائے جاتے ہیں۔
 منڈھا چھوٹا ہونا (۱۶) محاورہ (شادی کا سائبان تڑانا۔
 منڈھ جانا۔ (۱۰) (منڈ) کسی کام میں پورے طور پر مصروف ہونا۔
 منڈھنا۔ (منڈ) نا۔ (۱۰) (منڈ) پوشش کرنا۔ کھڑا کاغذ یا چمڑا چھڑھانا۔
 مڑھنا جانپنا۔ ڈھانپنا۔ ڈھانکنا (۳)۔ ڈھن لگانا۔ بر کرنا۔ گلے مڑھنا۔
 (۳)۔ رجا۔ چھنا۔ ہونا۔
 منڈھوانا۔ (منڈ) ڈھنا۔ (۱۰) (منڈ) پوشش کرنا۔ مڑھنا (۲)۔ کسی کے
 سر ڈھانا۔ ڈھن دھوانا۔
 منڈھوانی۔ (منڈ) ڈا۔ (۱۰) (منڈ) منڈھنے کی اجرت۔ پوشش
 کرنا کی مزدوری۔
 منڈھی۔ (منڈ) ڈھی۔ (۱۰) (منڈ) یا (۱۰) (منڈ) چھوٹی مڑھی۔
 گٹیا (۲)۔ چھینوں کے رہنے کا چھوٹا سا گھنڈ۔ سائبان۔
 منڈی (منڈ) ڈی (۱۰) (منڈ) تجارت گاہ۔ بازار۔ ہاٹ۔ بڑا بازار۔
 ٹھوک فروشی کی جگہ۔
 منڈی لگنا (۱۶) محاورہ (منڈی کا روبرو شروع ہونا۔ بازار لگنا۔
 منڈی (منڈ) ڈی (۱۰) (منڈ) بین بالوں کی بنی شاتوں کی سر منڈی

منظوری کی اسامی ۱۶۔ مٹ (دہ ڈگری جس کی حکومت سے منظوری منظور ہو، بواور اس پر پیش کا بھی حق ہو۔
 منظور - (ممن نظوم) (ع۔ ۱۔ مٹ) پرویا گیا۔ منک کیا گیا، نظم کیا گیا۔
 اشعار میں لایا گیا۔ فاصد - نظم۔
 منظورہ - (ممن نظوم) (ع۔ ۱۔ مٹ) صفت آدیکے منظوم جمع۔ منظومات۔
 منح - (ع۔ ۱۔ مٹ) ۱۔ باز رکھنا۔ روکنا ۲۔ نارست۔ نامناسب۔ ناجائز
 ۳۔ خلاف قانون، خلاف شرع۔ خلاف رسم و رواج۔ اردو
 میں بفتح دوم پولا جاتا ہے۔
 منح کرنا۔ ۱۶۔ مص مرکب روکنا باز رکھنا۔
 منظور - (ممن ع۔ ۱۔ مٹ) (ع۔ ۱۔ مٹ) نیست و نابود۔ نابید۔
 منقطع - (ممن ع۔ ۱۔ مٹ) (ع۔ ۱۔ مٹ) پھرنے والا۔ ٹوٹنے والا۔ ٹوٹنے والا۔
 تم کھانے والا۔ کنایت، متوجہ ہونے والا۔
 منعقد - (ممن ع۔ ۱۔ مٹ) (ع۔ ۱۔ مٹ) انعقاد پانے والا۔ بندھنے والا۔ ۲۔ ٹھہرنے
 والا۔ مقرر ہونے والا۔
 منعقد ہونا۔ ۱۶۔ محاورہ ٹھہرنا۔ قرار پانا۔ قائم ہونا۔
 منعکس - (ممن ع۔ ۱۔ مٹ) (ع۔ ۱۔ مٹ) عکس قبول کرنے والا۔ ۲۔ اٹنا۔ اوندھا۔
 منقول - (ممن ع۔ ۱۔ مٹ) (ع۔ ۱۔ مٹ) وہ شاع جو اڑٹ کر آئی ہو۔
 منسجم - (ممن ع۔ ۱۔ مٹ) (ع۔ ۱۔ مٹ) نعمت دینے والا۔ ۲۔ امیر۔ مالدار۔ دولت مند
 فتن برزدار۔ متمول۔ دھنی ۳۔ آقا۔ ولی نعمت۔ مہربانی، فیاض
 سخی۔ تجیز۔ دیوال۔
 منقطع - (ممن ع۔ ۱۔ مٹ) (ع۔ ۱۔ مٹ) گدلا۔ مکدر ۲۔ ناراض۔ رنجیدہ۔
 انسرہ۔ حزیں۔ ملول۔
 منقذ - (ممن ع۔ ۱۔ مٹ) (ع۔ ۱۔ مٹ) راستہ۔ گزرگاہ ۲۔ سوراخ۔ مسام۔ تیز
 روزن۔ جمع۔ منافذ۔
 منفرج - (ممن ع۔ ۱۔ مٹ) (ع۔ ۱۔ مٹ) کشادہ۔ وسیع۔ کھلا ہوا ۲۔ خوش۔
 منفرج - (ممن ع۔ ۱۔ مٹ) (ع۔ ۱۔ مٹ) وسیع۔ پھیلا ہوا۔ کشادہ۔
 منفرج زاویہ - (ع۔ ۱۔ مٹ) (ع۔ ۱۔ مٹ) وہ زاویہ جو قائم سے بڑا ہو۔
 منفرج - (ممن ع۔ ۱۔ مٹ) (ع۔ ۱۔ مٹ) فرحت دینے والا خوشی بخشنے
 والا ۲۔ خوش۔ شاد۔
 منفرج - (ممن ع۔ ۱۔ مٹ) (ع۔ ۱۔ مٹ) اکٹھا۔ اکٹھا ۲۔ بگنا۔ واحد۔
 منفصل - (ممن ع۔ ۱۔ مٹ) (ع۔ ۱۔ مٹ) علیحدہ کیا گیا۔ علیحدہ کیا ہوا۔
 منفصلہ - (ممن ع۔ ۱۔ مٹ) (ع۔ ۱۔ مٹ) تصفیہ شدہ۔ فیصل شدہ۔
 منفعوت - (ممن ع۔ ۱۔ مٹ) (ع۔ ۱۔ مٹ) نفع۔ فائدہ۔ سود حاصل۔ یافت۔
 منفعل - (ممن ع۔ ۱۔ مٹ) (ع۔ ۱۔ مٹ) اثر قبول کرنے والا۔ نام
 شرمندہ۔ شرم سار۔
 منفق - (ع۔ ۱۔ مٹ) (ع۔ ۱۔ مٹ) کسی کو روٹی کرا دینے والا۔
 منفکات - (ممن ع۔ ۱۔ مٹ) (ع۔ ۱۔ مٹ) الگ کیا گیا۔ الگ کیا گیا۔
 منفی - (ممن ع۔ ۱۔ مٹ) (ع۔ ۱۔ مٹ) نفی کیا گیا۔ روک گیا۔ تفریق کیا گیا۔ فاتح
 کیا گیا۔ کھٹا گیا۔
 منقاد - (ممن ع۔ ۱۔ مٹ) (ع۔ ۱۔ مٹ) مطیع۔ تابعدار۔ فرماں بردار۔

منقار - (ممن ع۔ ۱۔ مٹ) (ع۔ ۱۔ مٹ) اچوچ۔
 منقار زیر پر رہنا (ہونا)۔ ۱۶۔ محاورہ خاموش رہنا۔ دسے رہنا۔
 منقاش - (ع۔ ۱۔ مٹ) (ع۔ ۱۔ مٹ) موجد سانس۔ نقش کرنے والا ۲۔ کاشا لکھنے
 اور بال اکھاڑنے کا آلہ۔
 منقبت - (ع۔ ۱۔ مٹ) (ع۔ ۱۔ مٹ) ایک اہزار جس سے پیٹ سے پانی نکالتے ہیں۔
 منقبت - (ممن ع۔ ۱۔ مٹ) (ع۔ ۱۔ مٹ) تعریف۔ توصیف۔ ثنا صفت
 ۲۔ کوئی چیز جس پر انسان فخر کے یا جو اسے ممتاز بنا دے۔
 منقبض - (ممن ع۔ ۱۔ مٹ) (ع۔ ۱۔ مٹ) کپچ کر رکھنا ہوا۔ بچھپنا ہوا۔ سٹا ہوا۔
 سکوا ہوا ۲۔ دل گرفتہ۔ مکدر۔ ناراض۔ ناخوش۔
 منقح - (ممن ع۔ ۱۔ مٹ) (ع۔ ۱۔ مٹ) تھیں کیا ہوا۔ پاک کیا ہوا۔ جھوٹ سے
 پاک۔ صاف بات۔
 منقسم - (ممن ع۔ ۱۔ مٹ) (ع۔ ۱۔ مٹ) تقسیم کیا گیا۔ بانٹا ہوا۔ تقسیم شدہ۔
 منقسم - (ممن ع۔ ۱۔ مٹ) (ع۔ ۱۔ مٹ) تقسیم ہونے والا۔
 منقش - (ممن ع۔ ۱۔ مٹ) (ع۔ ۱۔ مٹ) نقش کیا گیا۔ نقشیں۔ پیل پوٹے دار۔
 منقصب - (ع۔ ۱۔ مٹ) (ع۔ ۱۔ مٹ) جوا کیا گیا ۲۔ جوا پنی جگہ سے ہٹ جائے۔
 منقصت - (ممن ع۔ ۱۔ مٹ) (ع۔ ۱۔ مٹ) کمی۔ گھٹا۔ نقصان
 ۲۔ عیب۔ نقص۔
 منقضبت - (ع۔ ۱۔ مٹ) (ع۔ ۱۔ مٹ) عرومن کی ایک جگہ۔
 منقضبت - (ممن ع۔ ۱۔ مٹ) (ع۔ ۱۔ مٹ) گزرنے والا گزرا ہوا۔ گزشتہ۔ بیتا ہوا۔
 منقطع - (ممن ع۔ ۱۔ مٹ) (ع۔ ۱۔ مٹ) قطع ہونے والا قطع کیا گیا ۲۔ اختتام کر
 ۲۔ بچھا ہونا ۳۔ فیصلہ شدہ۔ تصفیہ شدہ۔
 منقطع ہونا۔ ۱۶۔ محاورہ ۱۔ فیصلہ ہونا۔ تصفیہ ہونا ۲۔ جاتا رہنا۔
 ٹوٹنا۔ لگنا۔
 منقل - (ممن ع۔ ۱۔ مٹ) (ع۔ ۱۔ مٹ) بگلی رہی، منقل۔
 منقلا - (ممن ع۔ ۱۔ مٹ) (ع۔ ۱۔ مٹ) فوج کا وہ حصہ جو لشکر سے آگے
 رہے۔ ہر اول۔
 منقلب - (ممن ع۔ ۱۔ مٹ) (ع۔ ۱۔ مٹ) پلٹنے والا۔ اٹلنے والا۔
 ۲۔ اوندھا۔
 منقلبات - (ع۔ ۱۔ مٹ) (ع۔ ۱۔ مٹ) وہ برج جن کے طالع میں کام درست نہیں
 ہوتا جو چار ہیں۔ حمل۔ سرطان۔ جدی اور میزان ۳۔ متقلب کی جمع۔
 منقول - (ممن ع۔ ۱۔ مٹ) (ع۔ ۱۔ مٹ) نقل کیا گیا۔ کھٹا ہوا۔
 منقول خاطر - (ممن ع۔ ۱۔ مٹ) (ع۔ ۱۔ مٹ) خیالی۔
 منقوط - (ممن ع۔ ۱۔ مٹ) (ع۔ ۱۔ مٹ) قطع کیا گیا۔
 دار نقطہ والا۔
 منقول - (ممن ع۔ ۱۔ مٹ) (ع۔ ۱۔ مٹ) نقل کیا گیا۔ بیان کیا گیا ۲۔ کھٹا گیا۔ آتار
 کیا ۳۔ ایک جگہ سے دوسری جگہ سے لایا گیا ۴۔ وہ علم جس میں صرف
 ان باتوں سے بحث ہو جو دوسروں نے بیان کی ہیں۔
 منقول عندہ - ۱۔ ع۔ ۱۔ مٹ) (ع۔ ۱۔ مٹ) دوسری جگہ سے نقل کی گئی ہو۔
 منقولہ - (ممن ع۔ ۱۔ مٹ) (ع۔ ۱۔ مٹ) ایک جگہ سے دوسری جگہ سے نقل
 کیے قابل۔ قابل انتقال۔

منہننا - رمن - نام - نا - (۵- معص) دیکھنے میں بنا کر بات کرنا۔
 من من کر بگڑنا - (۵- معص) راضی ہو کر ناراض ہونا۔
 من منگنا - (۱- من مانا) خاطر خواہ۔
 منمنی - رمن - من - من - (۵- معص) نہایت چھوٹی بپتہ قدر حقیر - بیچ۔
 منمنی آواز - رمن - من - من - (۵- معص) وہ آواز جو ناک سے نکلتی ہوئی معلوم ہو۔
 منمن - رمن - من - (۵- معص) برص کی بیج - احسانات۔
 مننا - رمن - نا - (۵- معص) مٹھ کر راضی ہونا - رعیت کی دفع کرنا۔
 مننا - رمن - نا - (۱- معص) گستاخ - شمار کرنا - پاپنا۔
 منور - من - (۱- معص) دانش مند - دانہ - دانش مند - انسان - سوچنے والی مخلوق - دنیا کا پہلا انسان - آدم - ہندوؤں کے مذہبی تالمن دھرم شاستر کا مصنف۔
 منور - رمن - (۵- معص) بندہ - شیون - یوزنہ - بعض آدمیوں کا نام بھی ہوتا ہے۔
 منوا - رمن - نا - (۵- معص) دل - روح - آثار - منوا کا امر۔
 منوا کے چھوڑنا - (۱۶- معص) اپنی بات تسلیم کر لینا - اقرار کر لینا۔
 منوال - رمن - وال - (۱- معص) وہ لکڑی جس پر جلا پکڑا ہوا بن کر بیٹھا جاتا ہے - (۲- معص) اجازت - ڈھنگ - طور طریق - وضع - دستور - رسم - تسلیم کر لینا - اقرار کرنا۔
 منوانا - رمن - نا - (۵- معص) تسلیم کر لینا - اقرار کرنا۔
 منور - رمن - (۱- معص) روشنی - دیا گیا - نورانی - روشن - چمکدار۔
 منور تھ - رمن - (۱- معص) اس - اندام - مطلب - مدعا - مقصد - خواہش - ارادہ۔
 منور تھ سدا - منور تھ سپہل - (۱- معص) مراد پر آئے - مقصد پورا ہو۔
 منور - رمن - (۱- معص) نیند لانے والی۔
 منون - رمن - (۱- معص) تئیں والا حرف - وہ حرف جس پر دو ذریعہ یا دو پیش ہوں۔
 منور - رمن - (۱- معص) دل - خوبصورت - صمیمی - خوب - تشکیل۔
 منور - رمن - (۱- معص) منی - منی - نقطہ سے منسوب۔
 منور - (۱- معص) سوراخ - روزن - چھید - موری - موکھا - کھڑکی۔
 منور - (۱- معص) دروازہ - دروازہ - دروازہ - گھاڑ - گھاڑ - تہ - ۵ - راہ - راستہ - گڑھا - نکاس - ۶ - دہانہ - چھوڑے - چہرہ - ۵ - رخ - ۸ - شکل - صورت - ۹ - پاس - لحاظ - خاطر - ملاحظہ - ۱۰ - لیاقت - جھول - مقدرت - جرات - ۱۱ - زبان - ۱۲ - کھڑکلا - ۱۳ - دروہ - سامنے - ۱۴ - نوک - دھار - ۱۵ - طرف - سمت - جانب۔
 منہ آنا - (۱۶- معص) مناور زبان میں چھانے پڑ جانے کا - کھانے کے کھانے مانا۔
 منور کرنا - (۱۶- معص) طس و کشینا کرنا۔
 منہ اپنا سارے کر چھہر جانا - (۱۶- معص) شرمندہ ہو کر جانا - ندامت اٹھا کر جانا۔
 منہ اپنا سارے کر رہ جانا - (۱۶- معص) شرمندہ ہونا - ندامت اٹھانا۔

منہ اتر جانا - منہ اترنا - (۱۶- معص) راہ چرو بے رونق ہونا - چہرہ ڈبلا پڑ جانا - چہرے کا رنگ روپ جانا - ہمارے سے رخ کے آثار ظاہر ہونا۔
 منہ آنا سا نکل آنا - منہ اتر جانا - (۱۶- معص) منہ لاغر اور ڈبلا ہو جانا - پتھر پر رنگ دو دھن - دہنا۔
 منہ اٹھا کر - منہ اٹھانے - (۱۶- معص) بے دھڑک - اندھا دھند بلا سچے سمجھے - بے پردائی سے - بے تحاشا - بغیر غور کیے۔
 منہ اٹھا کر چلنا - (۱۶- معص) ہمارے سے بچو کر چلنا - فتر بے ہمارا کی طرح چلنا - (۱۶- معص) چھوڑ کر چلنا - بے پردائی سے چلنا۔
 منہ اٹھا کر کہنا - (۱۶- معص) ہمارے سے سوچے سمجھے کہنا۔
 منہ اٹھانا - (۱۶- معص) ہمارے سے کسی طرف جانا - کہیں کا ارادہ کرنا۔
 منہ اٹھانے جانا - (۱۶- معص) ہمارے سے دھڑک جانا - دیکھے جھالے بغیر جانا۔
 منہ اٹھ جانا - (۱۶- معص) ہمارے سے کسی طرف ہارنا - ہونا۔
 منہ اٹھنے - منہ اٹھانے - (۱۶- معص) سویرے - تڑکے - دن نکلے۔
 منہ اٹھلا ہو جانا - (۱۶- معص) ہمارے سے کھانے کھانا - (۱۶- معص) عادت رہ جانا - رو سہاٹی سے بچ جانا - سرخوئی ہونا۔
 منہ اڑا س ہونا - (۱۶- معص) ہمارے سے ادا سی ظاہر ہونا۔
 منہ اس قابل ہونا - (۱۶- معص) ہمارے سے لیاقت ہونا۔
 منہ اٹک ندامت دھونا - (۱۶- معص) شرمندہ ہو کر دھونا۔
 منہ اٹکوں سے دھونا - (۱۶- معص) بہت دہنا - اتنا دہنا کہ چہرہ کاسوہل سے تر ہو جائے۔
 منہ اکھری - (۱۶- معص) زبانی - منہ کی۔
 منہ اندھیرے - (۱۶- معص) صبح تڑکے - علی الصبح - پچھلے صبح صادق کے وقت۔
 منہ اونڈھا کر لیٹنا - (۱۶- معص) ہمارے سے یا کھڑے میں منہ لیٹ کر پڑ رہنا - ۲ - ندامت ہو کر الگ جا پڑنا۔
 منہ بانا - (۱۶- معص) منہ کھولنا - منہ کھلانا - جمائی لینا - ۲ - اپنی بیوقوفی پر ہنس پڑنا - ۳ - مرہٹا چل بنا۔
 منہ باندھ کے بیٹھنا - (۱۶- معص) ہمارے سے بند کر کے بیٹھنا - ۲ - خاموش رہنا - چپ رہنا۔
 منہ باندھے ہوئے بیٹھنا - (۱۶- معص) ہمارے سے ہونے۔
 منہ بخشنا - (۱۶- معص) طاقت دینا - کوئی بات کرنے کی قوت عطا کرنا۔
 منہ پراپنا - (۱۶- معص) ہمارے سے تیوری پر پڑنا - ناراضی ظاہر کرنا۔
 منہ پورنا - (۱۶- معص) ہمارے سے روکنے کی صورت بنانا۔
 منہ بگاڑ دینا - (۱۶- معص) ہمارے سے پرمار مار کر زخمی کر دینا - ۲ - منہ کا دائرہ خراب کر دینا۔
 منہ بگاڑنا - (۱۶- معص) ہمارے سے بنا - ۲ - تیوری چڑھانا - غصے کی سی صورت

بنانا، ۳، مار مار کر چہرہ زخمی کر دینا (م، مٹھ ٹیڑھا کر کے ہنسانا، مٹھ کو بد مزہ کرنا۔
 مٹھ بگڑا ہوا، ہونا۔ ۱۶۔ محاورہ) غصہ یا قہر و غضب کا ظاہر ہونا۔ ناراض ہونا۔
 مٹھ بگڑ جانا، بگڑنا۔ ۱۶۔ محاورہ) چہرے کی حالت خراب ہو جانا، صورت کا درست نہ رہنا، ۲، مٹھ بد مزہ ہو جانا۔ مٹھ کا ذائقہ خراب ہونا، ۳، توری پڑھ جانا، چہرے کا رنگ متغیر ہو جانا۔ غصہ جانا۔
 مٹھ بنا بیٹھنا۔ مٹھ بنا کر بیٹھنا۔ ۱۶۔ محاورہ) بگڑا بیٹھنا، ناراض ہو جانا۔ مٹھ بچلا کر بیٹھ جانا۔
 مٹھ بند کر۔ ۱۶۔ محاورہ) چہرے سے نفرت ظاہر کر کے۔ مٹھ بنا کر بیٹھنا۔ ۱۶۔ محاورہ) ناراض ہونا۔ بگڑا بیٹھنا۔ چین بچھن ہونا۔
 مٹھ بنا لینا۔ ۱۶۔ محاورہ) خفا ہو جانا، ناراض ہو جانا۔ توری پڑھا لینا۔ مٹھ بنا نا۔ ۱۶۔ محاورہ) توری صدمت بنا کر چہرے کو بد نما کرنا، رونے کی صورت بنانا، ۲، ناراض ہونا۔ غصے کی صورت بنانا۔ رنجیدہ ہونا، ۳، بد ذائقہ چیز کھانے یا پینے وقت چہرے کی ہیئت بگاڑ لینا۔
 مٹھ بناؤ۔ ۱۶۔ محاورہ) ہوش میں آؤ۔ مٹھ بن جا نا۔ مٹھ بننا۔ ۱۶۔ محاورہ) توری چڑھنا۔ غصا ہونا، ناراضی ہونا، ۲، مٹھ ٹیڑھا ہونا، صورت بگڑ جانا۔
 مٹھ بناؤ۔ ۱۶۔ محاورہ) ہوش میں آؤ۔ ہوش کی دوا کر دو۔ مٹھ بند۔ ۱۶۔ محاورہ) لب بستہ خاموش۔ چپ چاپ، ۲، کنواری، دو شیزہ۔ باکرہ۔ مٹھ بند کر دینا۔ ۱۶۔ محاورہ) لوٹنے سے روک دینا، چپ کر دینا۔
 مٹھ بند کر لینا۔ ۱۶۔ محاورہ) خاموش ہو جانا، ۲، مٹھ پر کھڑا یا ہاتھ لگا لینا۔
 مٹھ بند کرنا۔ ۱۶۔ محاورہ) لوٹنے سے روکنا، خاموش کرنا، ۲، رشوت دے کے لپٹنے خلاف کہنے سے باز رکھنا۔
 مٹھ بندنگلی۔ ۱۶۔ محاورہ) ہنگوڑ۔ بن کھلا بھول، ۲، باکرہ۔ دو شیزہ کنواری۔
 مٹھ بند ہونا۔ ۱۶۔ محاورہ) دکن بیٹہ ہونا، چپ ہونا، خاموش ہونا، بات نہ کرنا، (ہا کسی بدی یا چغلی کرنے سے روکنا، ۳، زخم بھرنے۔
 مٹھ بند سے۔ ۱۶۔ محاورہ) جنینوں کے سادھو جو کچھ مٹھ پر اس لیے باندھ رکھتے ہیں کہ سانس سے کوئی کیراڈ مرنے نہ جائے۔
 مٹھ بخوار کھو۔ مٹھ بخوار۔ مٹھ بخوار۔ ۱۶۔ محاورہ) اس قابل تو بہاؤ۔ امید دیکھو مزدور کھو۔ اس خیال سے باز آؤ۔
 مٹھ ہونا۔ ۱۶۔ محاورہ) مٹھ درست کرنا، ۲، لیاقت پیدا کرنا۔ کسی کام کے لائق ہونا۔
 مٹھ بولا۔ ۱۶۔ محاورہ) مٹھ سے کہا ہوا۔ زبان سے بولا ہوا۔
 مٹھ بولا بھائی۔ مٹھ بولا بیٹا۔ ۱۶۔ محاورہ) وہ شخص جسے زبان سے کہہ کر بھائی یا بیٹا بنایا ہو۔
 مٹھ بولتی۔ ۱۶۔ محاورہ) بولتی ہوئی گویا۔ تصویر یا شبہ کی تعریف میں کہتے ہیں۔ یعنی ایسی ہی ہونانی ہے کہ معلوم ہوتا ہے ابھی بولنے والی

ہے جیسے مٹھ بولتی تصویر۔
 مٹھ بولی، ۱۶۔ محاورہ) مٹھ سے کہی ہوئی، زبان سے بتائی ہوئی۔
 مٹھ بولی، ہنس۔ مٹھ بولی بیٹی۔ ۱۶۔ محاورہ) وہ عورت جسے مٹھ سے بہن یا بیٹی کہہ دیا جائے۔
 مٹھ بھرا آنا۔ مٹھ بھرا آنا۔ ۱۶۔ محاورہ) مٹھ میں پانی یا مٹھ لیت کا آ جانا، جی مالش کرنا۔ مٹھ بھرا آنا۔
 مٹھ بھرائی، ۱۶۔ محاورہ) مٹھ (زبان بندی، رشوت۔
 مٹھ بھرائی دینا۔ مٹھ بھرا دینا۔ ۱۶۔ محاورہ) رشوت دینا۔
 مٹھ بھر کے۔ ۱۶۔ محاورہ) مٹھ (مٹھ لیا، لہا لہا۔ لہریز، بھر پور، ۲، تمام دکھا، ۳، نہایت۔ از حد۔ بھر پور، ۲، خاطر خواہ۔ سن مانا۔ نجوبی۔
 مٹھ بھر کے کو سنا۔ ۱۶۔ محاورہ) بیدردی سے کو سنا۔ بیدھروک کو سنا۔ کو سنے میں کسر تھانہ لکھنا۔
 مٹھ بھر کے گالی دینا۔ ۱۶۔ محاورہ) غش بکنا۔ سخت اور قابل شرم ٹھکانی دینا۔
 مٹھ بھرنا۔ ۱۶۔ محاورہ) مٹھ بڑ کرنا۔ مٹھ میں لغو دینا، ۲، سائل کو اتنا دینا کہ اس کی قیمت بھر جائے، ۳، رشوت دینا۔ رشوت دے کر مٹھ بند کرنا۔
 مٹھ بھری، ۱۶۔ محاورہ) رشوت۔
 مٹھ بھڑاک۔ ۱۶۔ محاورہ) مٹھ کے بل۔ آوندھا۔ گرنے کے لیے مستعمل ہے۔
 مٹھ بھی سامنے نہ ٹھرتا۔ ۱۶۔ محاورہ) ذرا توجہ نہ کرنا، ۲، شکل نہ دکھانا۔
 مٹھ پانا، ۱۶۔ محاورہ) توجہ پانا، رخ پانا، راضی پانا، خوش پانا۔
 مٹھ پر پاؤں رکھنا۔ ۱۶۔ محاورہ) بہت منت سماجت کرنا۔
 مٹھ پر۔ ۱۶۔ محاورہ) مٹھ سے۔ دو بڑو۔ بال مقابل، ۲، بونٹوں پر۔ لب پر، ۳، چہرے پر۔ چہرے کے اوپر۔
 مٹھ پر آنا۔ ۱۶۔ محاورہ) زبان پر آنا، ۲، ظاہر ہونا۔ پیش ہونا۔
 مٹھ پر نمودار ہونا۔
 مٹھ پرانی بات۔ ۱۶۔ محاورہ) زبان پر کئی ہوئی بات۔
 مٹھ پر کئی ہوئی، ہمیں نہ کہتی ہے۔ ۱۶۔ محاورہ) جو بات زبان پر آجاتی ہے کہہ دینا، ہی ہوتی ہے۔
 مٹھ پر بات لانا۔ ۱۶۔ محاورہ) مجید کھولنا۔ سازناش کرنا۔ بات کا اظہار کرنا۔
 مٹھ پر کھالی ہونا۔ ۱۶۔ محاورہ) چہرے پر تانگی ہونا۔
 مٹھ پر کھانا۔ ۱۶۔ محاورہ) صورت سے ظاہر ہونا۔ چہرے سے آشکار ہونا، چہرے سے پانا جانا۔
 مٹھ پر بسنت چھوٹنا۔ مٹھ پر بسنت کھلنا۔ ۱۶۔ محاورہ) چہرہ زرد پڑنا، خوف چھانا۔ مٹھ پھیلنا۔
 مٹھ پر پانی پھر جانا۔ ۱۶۔ محاورہ) چہرے پر رونق آ جانا، چہرہ بھر جانا، مٹھ پر تانگی آ جانا۔
 مٹھ پر تانگی آ جانا۔ ۱۶۔ محاورہ) مٹھ پر تانگی آ جانا۔ مٹھ پر تانگی آ جانا۔ مٹھ پر تانگی آ جانا۔

منہ پر پٹا رکھ کے رونا - ۱۱۔ مادہ ڈپٹے کا کونا منہ پر رکھ کر رونا۔
 منہ ڈھانپ کر رونا۔
 منہ پر چوڑے پتے صراحی موت - ۱۱۔ مثل (منہ) سانسے تعریف غیر جانبداری میں بدگئی۔
 منہ پر پٹھکار برسا - ۱۱۔ مادہ (منہ) کا بے رونق ہونا۔
 منہ پر چھینک مارنا - ۱۱۔ مادہ (منہ) سے کوئی چیز واپس کر دینا منہ پر مارنا۔
 منہ پر جھوک دینا - ۱۱۔ مادہ (منہ) چہرے پر جھوک ڈالنا، نہایت شرمندہ اور ذلیل کرنا۔ منہ پر عیب صاف کر دینا۔
 منہ پر پھیکری رکھ لینا - ۱۱۔ مادہ (منہ) لحاظ کرنا۔ بے مروتی کرنا۔
 منہ پر جاننا - ۱۱۔ مادہ (منہ) لحاظ کرنا۔ خیال کر کے مروت برتنا۔
 منہ پر چھوٹی لگنا - ۱۱۔ مادہ (منہ) نہایت شرمندگی حاصل ہونا۔
 منہ پر جو کئی ہونا - ۱۱۔ مادہ (منہ) چہرے سے بد شکونی کے آثار ظاہر ہونا۔
 منہ پر جھجکا کرنا - ۱۱۔ مادہ (منہ) سانسے بات کہنا۔
 منہ پر چڑھنا - ۱۱۔ مادہ (منہ) مقابل کرنا۔ سامنا کرنا۔ لڑنے کو کھڑے ہونا۔
 ۱۲۔ مقابل ہونا۔ سانسے ہونا۔ ٹد بڑ ہونا۔ ۱۳۔ استغنا ہونا۔ ۱۴۔ منہ لگنا۔ مصائب بننا۔
 منہ پر چھو پادینا - ۱۱۔ مادہ (منہ) چہرہ ہوجانا۔ خاموشی اختیار کرنا۔
 منہ پر خاک اڑنا - ۱۱۔ مادہ (منہ) چہرے کا بے رونق اور پریشان ہونا۔
 منہ پر خاک ملی ہے - ۱۱۔ مثل (منہ) چیز کو تیزی طرح سے رکھا ہے، مہمٹسی ظاہر کر کے دولت کو چھپایا ہے۔
 منہ پر خوشامد نہ کرنا - ۱۱۔ مادہ (منہ) پاسداری نہ کرنا۔ صاف بات کہنا لگی لپٹی نہ کرنا۔
 منہ پر دامن رکھ کے رونا - ۱۱۔ مادہ (منہ) ڈھانپ کر رونا۔
 منہ پر رکھنا - ۱۱۔ مادہ (منہ) دیکھے منہ پر کہنا۔
 منہ پر رکھ دینا - ۱۱۔ مادہ (منہ) چہرے پر رکھ دینا، ۲۔ کئی چیز چھیننا، ۳۔ اپنا احسان ظاہر کرنا۔
 منہ پر رونق آجانا - ۱۱۔ مادہ (منہ) چہرہ پر بشارت ہوجانا۔
 منہ پر زردی پھر جانا - ۱۱۔ مادہ (منہ) زردی لگنے جانے، ۱۲۔ مادہ (منہ) چہرہ پیلا پڑ جانا۔
 منہ پر سخی آنا - ۱۱۔ مادہ (منہ) بات نہ بان بھاننا۔
 منہ پر مٹھی ہونا - ۱۱۔ مادہ (منہ) بشارت ہونا۔ صحت مند ہونا۔
 منہ پر سیدھی پھیرنا - ۱۱۔ مادہ (منہ) (حق - مص) - صاف گوئی سے کام لینا۔ روبرو لونا۔
 منہ پر شفق چھو لونا - ۱۱۔ مادہ (منہ) مار سے خوشی کے چہرہ مٹنا ہوجانا۔
 منہ پر صاف صاف کہنا - ۱۱۔ مادہ (منہ) کھری کھری سنانا۔ لگی لپٹی نہ کرنا۔

منہ پر فاختہ اڑ جانا - ۱۱۔ مادہ (منہ) چہرے کا رنگ اڑنے لگنا۔ منہ کا فنی ہونا۔
 منہ پر قفل لگ جانا - ۱۱۔ مادہ (منہ) بند ہوجانا۔ خاموشی چھانچا۔
 منہ پر کچھ پیٹھ پر کچھ - ۱۱۔ مادہ (منہ) پر اور پیٹھ پر کچھ اور - ۱۱۔ مثل (منہ) ظاہر میں کچھ باطن میں کچھ۔ یہ ظاہر دوست ہے باطن دوست۔
 منہ پر کچھ نہ بولنا (کہنا) - ۱۱۔ مادہ (منہ) روبرو کچھ نہ کہنا۔ سانسے اگر خاموش رہنا۔
 منہ پر کوسنا - ۱۱۔ مادہ (منہ) سانسے بُرا بھلا کہنا۔
 منہ پر کہہ بیٹھنا - ۱۱۔ مادہ (منہ) سانسے کہہ دینا۔ آسنے سانسے کہنا۔
 منہ پر کہنا خوشد ہے - ۱۱۔ مثل (منہ) ہم آپ کے سانسے جو آپ کی تعریف کر رہے ہیں۔ یہ خوشامد میں حقیقت ہے۔
 منہ پر کہنے کو موٹھ کا بال - ۱۱۔ مثل (منہ) مردی ہے جو صحیح بات منہ پر کہہ دے۔
 منہ پر کھانا - ۱۱۔ مادہ (منہ) سانسے زخم کھانا۔ بہادری سے مقابلہ کرنا۔
 منہ پر کھری کھری کہنا - ۱۱۔ مادہ (منہ) کسی کی بُرائی اس کے سانسے کہہ دینا۔
 منہ پر کئی ساری باتیں ہیں - ۱۱۔ مثل (منہ) سانسے تو صحبت اور پیٹھ پیچھے عداوت ہے۔
 منہ پر لانا - ۱۱۔ مادہ (منہ) بیان کرنا۔ ظاہر کرنا۔
 منہ پر لکھا ہونا - ۱۱۔ مادہ (منہ) چہرے سے صاف ظاہر ہونا۔
 منہ پر لکالے جانا - ۱۱۔ مادہ (منہ) کسی خطرناک چیز کے سانسے تک پہنچنا۔
 منہ پر مردنی پھرنار چھانا - ۱۱۔ مادہ (منہ) منہ پر مردنی چھانا۔ دیکھے منہ پر زردی پھر جانا۔
 منہ پر مٹاب چھٹنا - ۱۱۔ مادہ (منہ) ہوجانا۔ چہرہ سفید پڑ جانا۔ چہرے کا رنگ پھیکا پڑ جانا۔
 منہ پر مہر کر دینا - ۱۱۔ مادہ (منہ) منہ پر مہر کرنا۔ بات کرنے سے باز رکھنا۔
 منہ پر مہر لگنا - ۱۱۔ مادہ (منہ) منہ پر مہر لگنا۔ ۱۲۔ مادہ (منہ) منہ پر قفل لگنا۔ ۱۳۔ مادہ (منہ) سانسے ہونا۔
 منہ پر مٹھا ہونا - ۱۱۔ مادہ (منہ) سانسے شیمیک کلام اور دل میں کوٹ۔
 منہ پر ناک نہ ہونا - ۱۱۔ مادہ (منہ) خرم و حیا نہ ہونا۔ غیرت نہ ہونا۔ اپنی عزت داؤد کا خیال نہ ہونا۔
 منہ پر ٹمک ہونا - ۱۱۔ مادہ (منہ) چہرے پر طراحت ہونا۔ خوبصورتی ہونا۔
 منہ پر لور نہ ہونا - ۱۱۔ مادہ (منہ) چہرے پر رونق نہ ہونا۔ چہرہ بے رونق ہونا۔
 منہ پر نہ تھو لگنا - ۱۱۔ مادہ (منہ) حقارت کی نظر سے دیکھنا۔
 منہ پر نہ رکھنا - ۱۱۔ مادہ (منہ) زبان پر نہ رکھنا۔ مذاکرہ چھیننا۔ سانسے نہ کہنا۔
 روبرو زبان پر دلانا۔

مُنہ پھینا۔ ۱۷۔ محاورہ) مُنہ موڑ دینا۔ رُخ پھیر دینا، ۲۲۔ جی پھیر دینا۔ طبیعت سیر کر دینا، ۳۰۔ لپٹا کر دینا۔ جھگڑانا۔ مفلوب کر دینا۔ مُنہ پھیلانا۔ ۱۷۔ محاورہ) مُنہ کھولنا، ۲۲۔ زیادہ مانگنا بہت لالچ کرنا، ۳۰۔ مول بڑھانا۔ زیادہ قیمت مانگنا۔

مُنہ پھیلانے پٹھنا۔ ۱۷۔ محاورہ) فخر رہنا۔ مانگنے اور لینے کے لیے آمادہ رہنا۔

مُنہ پیٹنا۔ ۱۷۔ محاورہ) نہایت غصہ یا غم کی حالت میں اپنے منہ پر سے ہتھ پڑگانا۔

مُنہ پیل پڑ جانا۔ مُنہ پر زوری چھانا۔

مُنہ تک آنا۔ ۱۷۔ محاورہ) لپٹ تک آنا۔ زبان تک آنا، ۲۰۔ کناروں تک چھانا۔ لپٹنے پر جانا۔

مُنہ تک جگر آنا۔ ۱۷۔ محاورہ) جی گھبرانا۔ طبیعت بہت پریشان ہونا۔ مُنہ تک کے رہ جانا۔ ۱۱۔ محاورہ) حیرانی سے خاموش رہ جانا۔

مُنہ تھکنا۔ مُنہ کی طرف دیکھنا۔ چہرے کی طرف نگاہ کرنا، ۲۰۔ جواب کا منظور ہونا۔ ۳۰۔ حسرت اور یاس کی نگاہوں سے دیکھنا، ۴۰۔ حیران و شہد ہو کر رہ جانا، ۵۱۔ لاجواب ہونا، ۶۰۔ تعجب سے دیکھنا۔

مُنہ تھمتھانا۔ ۱۷۔ محاورہ) چہرہ سُرخ ہو جانا۔

مُنہ تھنگ کرنا۔ ۱۷۔ محاورہ) نہ بولنا۔

مُنہ توپا۔ ۱۰۔ ۱۔ مُنہ بھرائی۔ رشوت۔

مُنہ تو دیکھو۔ مُنہ تو دیکھو۔ ۱۱۔ محاورہ) ۱۱۔ اس قابل تو ہو جاؤ۔ اتنی لیاقت تو پیدا کرو، ۲۰۔ تمہاری کیا حقیقت ہے۔ کیا مجال ہے

تم سے اورے کام۔

مُنہ توڑ کے جواب دینا۔ ۱۷۔ محاورہ) صاف جواب دینا۔ یہاں کی سے جواب دینا۔

مُنہ توڑنا۔ ۱۱۔ محاورہ) مُنہ پر ضرب لگانا۔ لاجواب کرنا۔ شرمندہ کرنا۔ مُنہ تھمتھانا۔ دیکھنے مُتہ چھلانا۔

مُنہ ٹوٹ جانا۔ مُنہ ٹوٹنا۔ ۱۷۔ محاورہ) مُنہ پر چوٹ آنا۔

مُنہ ٹوٹ جائے۔ راز۔ بددعا، مُنہ پر چوٹ آئے

مُنہ ٹپڑھا کرنا۔ ۱۷۔ محاورہ) نفرت و آزدگی سے مُنہ بگاڑنا۔

مُنہ ٹپڑھا ہونا۔ ۱۷۔ محاورہ) مُنہ پھر جانا، ۲۰۔ توری پڑھنا۔ خُشکی کی صحت بنتا۔

مُنہ جھوڑنا۔ ۱۷۔ محاورہ) کانا چھوسی کرنا۔ دُکراؤ کار کرنا، ۲۰۔ عیبیت کرنا۔ بدگئی کرنا

مُنہ جھٹلانا۔ ۱۷۔ محاورہ) برائے نام کھانا۔ نام کھانے کو کھانا۔ یوں ہی ذرا سا کھکھ لینا۔

مُنہ جھٹک جانا۔ ۱۷۔ محاورہ) مُتہ اُتر جانا۔ چہرہ سُست ہو جانا۔ ڈبلا ہو جانا۔

مُنہ جھلسنا۔ ۱۷۔ محاورہ) مُنہ کو لگ لگانا۔ مُنہ کو جلا کر سیاہ کرنا، ۲۰۔ اُسنے پھینا۔ ۳۰۔ رشوت دینا، ۴۰۔ قرضہ ادا کرنا۔ دسے دلا کر فارغ ہونا۔ مُنہ جھوڑا کرنا۔ ۱۷۔ محاورہ) دیکھنے مُتہ چھلانا۔

مُنہ پر ہاتھ پھیرنا۔ ۱۷۔ محاورہ) بدل لینے کا اشارہ کرنا، ۲۰۔ گالوں پر ہاتھ لگانا، ۳۰۔ کسی کام کے پورا کرنے کا اظہار کرنا۔

مُنہ پر ہاتھ رکھنا۔ ۱۷۔ محاورہ) بولنے سے روکنا۔ بات نہ کرنے دینا مُنہ بند کرنا۔

مُنہ پر ہوا نیاں اڑانا۔ مُنہ پر ہوا نیاں جھوٹنا۔ ۱۷۔ محاورہ) مُنہ فق ہونا۔ حواس باختہ ہونا۔ گھبرا جانا۔ چہرے کا رنگ غائب ہو جانا۔

مُنہ پڑنا۔ ۱۷۔ محاورہ) حوصلہ پڑنا۔ جرأت ہونا، ۲۰۔ افواہ ہونا۔ چچا ہونا۔ شہور ہونا۔ ۳۰۔ مُتہ میں جانا۔ کھانے میں آنا۔

مُنہ پڑی۔ ۱۷۔ صفت) مشہور خاص و عام۔ زبان زدِ خلائق۔

مُنہ پسار کر رہ جانا۔ ۱۷۔ محاورہ) حیران رہ جانا۔ ہکا بکا رہ جانا۔ شرمندہ ہونا۔

مُنہ پسارنا۔ ۱۷۔ محاورہ) کسی چیز کے کھانے یا لینے کو مُتہ پڑھانا، ۲۰۔ حوس کرنا۔ لالچ کرنا۔

مُنہ پکڑنا۔ ۱۷۔ محاورہ) بولنے نہ دینا۔ بات کرنے سے روکنا۔ مُنہ پھلا کر کھنا۔ ۱۷۔ محاورہ) چلا کر کھنا۔

مُنہ پھلا کرنا۔ ۱۷۔ محاورہ) مُنہ کھولنا۔ بولنا، ۲۰۔ مُنہ پھیلانا۔ مُتہ بنانا۔ اپنی بیوقوفی پر ہنسنا، ۳۰۔ زبان درازی کرنا۔

مُنہ پھٹنا۔ ۱۷۔ صفت) مزہ زور۔ زبان دراز۔ بدل لالچ۔ بد زبان، ۲۰۔ موقع بے موقع بولنے والا۔

مُنہ پھرا۔ ۱۷۔ محاورہ) ایسے رُخی کرنا۔ صورت سے بیزار ہونا۔

مُنہ پھیر جانا۔ مُنہ کا ٹپڑھا ہو جانا۔ دیکھنے وغیرہ کی ضرب سے، ۲۰۔ لغو سے کامیاب ہو جانا، ۳۰۔ مُتہ سامنے سے مہٹ جانا۔ رُخ پھیر جانا۔

سُست لکھانا۔ جھاک جانا، ۴۰۔ خوب سیر ہو جانا۔ جی پھر جانا۔ اُگنا جانا، ۵۰۔ دھار کا ٹپڑھا جانا۔ لوک ٹپڑھی ہو جانا، ۶۰۔ توجہ نہ بہتہ تیل دوسری طرف لگ جانا۔

مُنہ جھپلا کر بیٹھنا۔ ۱۷۔ محاورہ) ناراض ہو کر بیٹھنا۔ مُنہ تھمتھا کر بیٹھنا۔ خُشکی کی علامت ظاہر کرنا۔

مُنہ جھپلانا۔ ۱۷۔ محاورہ) ناراض ہونا۔ خفا ہونا۔ مُتہ چھلانا۔

مُنہ چھوڑ کر کھنا۔ ۱۷۔ محاورہ) بے خیرتی سے کھنا۔ بے شرم ہو کر کھنا۔

مُنہ چھوڑ کر مانگنا۔ ۱۷۔ محاورہ) بے شرم ہونے کے طلب کرنا۔ بے حیائی کر کے مانگنا۔

مُنہ چھوٹنا۔ ۱۷۔ محاورہ) آزدہ ہونا۔ خفا ہونا۔

مُنہ پھیر دینا۔ ۱۷۔ محاورہ) مُنہ موڑ دینا۔ رُخ پھیر دینا، ۲۰۔ جی پھیر دینا۔ طبیعت سیر کر دینا، ۳۰۔ لپٹا کر دینا۔ جھگڑانا۔ مفلوب کر دینا۔

مُنہ پھیر کے چلنا۔ ۱۷۔ محاورہ) نفرت ظاہر کرنا۔

مُنہ پھیر کے کھنا۔ ۱۷۔ محاورہ) ناؤ دادا سے کئی بات مُتہ دوسری طرف مُنہ پھیر کر نہ دیکھنا۔ ۱۷۔ محاورہ) بے توجہی کرنا۔ پروا نہ کرنا۔

مُنہ چھٹنا۔ ۱۷۔ محاورہ ۱، پیار کرنا۔ چمکانا ۲، خوشامد کرنا تاہم ہوا کرنا
مُنہ چاہیے۔ ۱۷۔ محاورہ ۱، ہمت و حوصلہ کی ضرورت ہے۔ دل گردہ چاہیے
قابلیت و درکار ہے۔

مُنہ چٹو ل۔ ۱۷۔ مٹا ہوا چٹا۔ پیار محبت ۲، بک بک۔ بکواس۔
مُنہ چھٹانا۔ ۱۷۔ محاورہ ۱، صورت نہ دکھانا، سامنے نہ آنا۔ گونہ کرنا۔
مُنہ چرخا ہوجانا۔ ۱۷۔ محاورہ ۱، دیکھئے مُنہ پھر جانا۔
مُنہ چڑھانا۔ ۱۷۔ محاورہ ۱، کسی کو گھمانے کے لیے مُنہ پڑھا کے دکھانا
کسی دوسرے کے مُنہ کی نقل بد نمائی کے ساتھ کرنا ۲، جھوٹی
نقل کرنا

مُنہ چڑھا۔ ۱۷۔ صفت ۱، مُنہ لگا گستاخ لیے ادب۔ جندی۔
مُنہ چڑھانا۔ ۱۷۔ محاورہ ۱، مَنگ لانا۔ عزت و مہر ۲، گستاخ بنانا بے ادب کرنا۔
۳، مصاحب بنانا، مقرب بنانا، نام تک جھوں چڑھانا۔ مُنہ بنانا۔ توری پڑھانا
نا پسندیدگی کی علامت ظاہر کرنا۔

مُنہ چڑھنا۔ مصاحب بنانا۔ مُنہ لگنا ۲، توری چڑھنا ۳، گستاخ ہونا۔
۴، مقابل ہونا۔ سامنے آنا۔ برابری کرنا ۵، چہرے پر نمایاں
ہونا۔ زبان پر چڑھنا ۶، پیچھے پانا۔ سر ہونا۔ درپے ہونا۔
محبت کرنا۔ محبت کرنا ۷، مقابلہ کرنا ۸، ہمسری اور برابری
کا دعویٰ کرنا۔

مُنہ چکنا پیسٹ خالی۔ ۱۷۔ مٹل ۱، ظاہر میں بڑی ٹیپ ٹاپ باطن میں خاز خراب۔
مُنہ چلانا۔ ۱۷۔ محاورہ ۱، مذکور حرکت دینا ۲، کھانا چلانا ۳، چگالی کرنا ۴، گھومتے کا
کاشا۔ مَنزے پلانا ۵، بد زبانی کرنا۔ گالیاں دینا۔

مُنہ چلنا۔ ۱۷۔ محاورہ ۱، مَنزے کا متحرک ہونا ۲، کھاتے رہنا ۳، زبان چلنا ۴، بک کیے
جانا ۵، چپ نہ بیٹھنا۔

مُنہ چلے ستر ہلا گئے۔ ۱۷۔ مٹل ۱، تمام طاقت کھانے پینے ہی سے ہے۔
مُنہ چنگ۔ ۱۷۔ مذا ۱، ایک باجا جو مَنہ سے بجایا جاتا ہے۔

مُنہ چور۔ ۱۷۔ صفت ۱، بہت حیا دار۔ بڑی شرم والا۔ وہ شخص جو شرم و حجاب کی وجہ
سے کسی کے سامنے مَنہ نہ کرے۔

مُنہ چومتے ہی کال کاٹنا۔ ۱۷۔ مٹل ۱، شروع میں ہی نقصان پہنچایا۔
مُنہ چوم کے چھوڑ دینا۔ ۱۷۔ محاورہ ۱، ذلیل و شرمندہ کے چھوڑ دینا ۲، کام نکال
کے دھتتا دینا۔

مُنہ چوم لینا۔ ۱۷۔ محاورہ ۱، بوسہ لینا ۲، بہت تعریف کرنا۔ خوش گفتاری کا قابل ہو
جانا۔ والو دینا۔

مُنہ چھپانا۔ ۱۷۔ محاورہ ۱، سامنے نہ آنا۔ پردہ کرنا چہرے پر پردہ ڈالنا ۲، شرمندہ
ہونا۔ شرمسار ہونا۔ حیا ہونا۔ شرمانا ۳، کنارہ کرنا۔ بھونچ کرنا ۴،
انکو چھپانا۔ نظر چھپانا۔

مُنہ چھٹ۔ ۱۷۔ صفت ۱، مَنہ چھٹ ۲، بے لگام۔
مُنہ چھوٹا۔ ۱۷۔ محاورہ ۱، برائے نام بچو لینا۔ اُوپر سے دل سے کہنا ۲، جھوٹی خاطر
کرنا ظاہر داری کی تو خفیہ کرنا۔

مُنہ چھوٹا اور بڑی ہایت۔ ۱۷۔ مٹل ۱، ادنیٰ آدمی کا حوصلے سے بڑھ کر بات کرنا
تھوڑی کا۔ جی بگھارنا۔

مُنہ چھوٹا۔ ۱۷۔ محاورہ ۱، اُوپر سے دل سے کہنا ۲، ذرا بات کرنا
ذرا بولنا۔

مُنہ چھٹنا۔ ۱۷۔ محاورہ ۱، تھپڑ مارنا۔ مَنہ کو طانیے مار کر زخمی کرنا۔
مُنہ خاتم کرنا۔ ۱۷۔ محاورہ ۱، مَنہ بند کرنا۔ آٹے یا مٹی سے کسی چیز کا سوراخ بند کرنا
مٹی کی محبت کرنا۔ کھردلی کرنا۔

مُنہ خدا کی طرف ہونا۔ ۱۷۔ محاورہ ۱، مَنہ پر مہر دوسہ کرنا۔
مُنہ خراب کرنا۔ ۱۷۔ محاورہ ۱، مَنہ بگاڑنا۔ مَنہ کا مزہ بگاڑنا۔ ۲،
گالیاں دینا۔

مُنہ خراب ہونا۔ ۱۷۔ محاورہ ۱، مَنہ بگاڑنا۔ بد زبانی ہونا۔ زبان گندی ہونا۔
۲، مَنہ بد مزہ ہونا۔

مُنہ خشک ہوجانا۔ ۱۷۔ محاورہ ۱، اگر بیا پیاس کی شدت سے زبان سوک جانا
خوف چھاجانا چہرہ زرد پڑ جانا۔ مَنہ مٹل ہوجانا۔ گھبرا جانا۔

مُنہ در مَنہ۔ ۱۷۔ تابع لعل ۱، رو برو۔ آتے سامنے۔
مَنہ در مَنہ خالہ نالی پیٹھ پیچھے دیکھن جانی۔ ۱۷۔ مٹل ۱، ظاہر میں خوشامد کی
باتیں رو برو دیکھنی۔

مَنہ در مَنہ کہنا۔ ۱۷۔ محاورہ ۱، سامنے کہنا۔ مَنہ پر کہنا۔ رو برو کہنا۔
بے جھجک کہنا۔

مُنہ دکھانا۔ ۱۷۔ محاورہ ۱، سامنے آنا۔ ملاقات کرنا۔ رو برو ہونا۔
مُنہ دکھانا مشکل ہے۔ مُنہ دکھانا مشکل ہو گیا۔ ۱۷۔ محاورہ ۱، بہت ہی مہارت
ہے جس کے سبب سامنے نہیں ہو سکتا۔

مُنہ دکھانے کی جگہ (باقی) نہیں۔ ۱۷۔ محاورہ ۱، نہایت شرمندگی کے باعث
سامنے نہیں جا سکتا۔

مُنہ دکھانے کی صورت نہ رہنا۔ شرمندگی کے باعث مَنہ کا موقع
نہ رہنا۔

مُنہ دکھانے کے قابل نہ رہنا۔ ۱۷۔ محاورہ ۱، نہایت شرمندگی کے باعث سامنے
آنے کے لائق نہ رہنا۔

مُنہ دکھائی۔ مُنہ دکھلائی۔ ۱۷۔ مٹل ۱، رونمائی۔ وہ نقدی جو پیسے پہلے دہن کا مَنہ
دیکھ کر سسرال دلے دستے ہیں۔

مُنہ دکھائی دینا۔ ۱۷۔ محاورہ ۱، کسی جگہ اور چیز، شیشہ اور پانی وغیرہ میں
اپنا عکس نظر آنا۔

مُنہ دھوانا، ہوجانا۔ ۱۷۔ محاورہ ۱، چہرے پر ہوا مٹا اٹھانا۔
مَنہ دھواؤ۔ مَنہ دھو رکھو۔ مَنہ دھو ڈالو۔ ۱۷۔ محاورہ ۱، کام کی امید نہ رکھو۔ تم ای کام
کے قابل نہیں۔

مُنہ دسے کر بات کرنا۔ ۱۷۔ محاورہ ۱، متوجہ ہو کر بات چیت کرنا۔
مُنہ دیکھ۔ ۱۷۔ محاورہ ۱، لیاقت پیدا کر۔

مُنہ دیکھا۔ ۱۷۔ صفت ۱، مَنہ دیکھنے والا۔ حلقہ بگوش۔ فرماں بردار۔ مطیع۔
مُنہ دیکھا کرنا۔ ۱۷۔ محاورہ ۱، حیرت سے چہرہ مٹھنا ۲، کسی بات کا منتظر ہونا۔
مُنہ دیکھتے رہ جانا۔ ۱۷۔ محاورہ ۱، حیران و ششدر رہ جانا ۲، امید
رہ جانا۔

مُنہ دیکھتے رہنا۔ ۱۷۔ محاورہ ۱، رُعب و دبدبہ میں اگر کچھ کہہ نہ سکتا۔

منہ دیکھ کر اٹھنا۔ (۱۶۔ محاورہ) سوتے ہوئے اٹھ کر کسی کی صورت دیکھنا۔ یعنی لوگ خیال کرتے ہیں کہ صبح سویرے اٹھ کر اگر کسی جہدک انسان کی صورت دیکھی جائے تو سارا دن خوشی میں بسر ہوتا ہے۔ اور اگر متوس سامنے آجائے، تو رنج و غم میں دن تمام ہوتا ہے۔

منہ دیکھ کر بات کرنا۔ (۱۶۔ محاورہ) سامنے خوشامدی باتیں کرنا۔
منہ دیکھ کر رہ جانا۔ (۱۶۔ محاورہ) منہ دکھتا رہ جانا۔ ٹائرس ہو کر رہ جانا۔
نا امید ہو جانا، (۱۶۔ محاورہ) حیران ہو جانا، (۱۶۔ محاورہ) لا جواب ہو کر رہ جانا، جواب نہ ہی پڑنا۔

منہ دیکھ کے تھپتھپا لگایا جاتا ہے۔ (۱۶۔ مثل) حیثیت دیکھ کر بڑا ڈر کیا جاتا ہے۔

منہ دیکھا کرنا۔ (۱۶۔ محاورہ) حیرت سے منہ نکال کرنا۔ چہرے کو گھوڑا کرنا، کسی بات کے سننے کا منظر رہنا۔

منہ دیکھنا۔ (۱۶۔ محاورہ) صورت دیکھنا، چہرہ دیکھنا، (۱۶۔ محاورہ) اپنے میں شکل دیکھنا، (۱۶۔ محاورہ) حیرانی سے منہ دیکھنا، حسرت سے منہ دکھنا، تعجب سے نظر آنا، (۱۶۔ محاورہ) حیرت سے منہ دیکھنا۔

منہ دیکھو۔ (۱۶۔ محاورہ) ذمائی کی لیاقت پر نظر کر دیکھا حوصلہ ہے۔

منہ دیکھی۔ (۱۶۔ محاورہ) سامنے کی۔ منہ پر کی۔ خوشامدی۔

منہ دیکھی کہنا۔ طرف داری کی بات کہنا۔

منہ دیکھی کی۔ (۱۶۔ محاورہ) باقی فعل، (۱۶۔ محاورہ) اد پری۔ دکھا دے کی۔ خوشامدی کی نمائندگی۔

منہ دیکھی کی اُلفت (چاہ۔ پریت۔ محبت)۔ (۱۶۔ محاورہ) اُلفت ہری محبت، دکھا دے کا بہار، نمائندگی، اخلاص۔ جھوٹی محبت۔

منہ دیکھی کی باتیں۔ (۱۶۔ محاورہ) اد پری باتیں۔ خاطر داری کی باتیں، دکھا دے کی باتیں۔

منہ دیکھی کی سب کہتے ہیں خدا لگتی کوئی نہیں کہتا۔ (۱۶۔ مثل) انصاف کی بات کوئی نہیں کہتا۔ سب خوشامد اور طرف داری کی باتیں کہتے ہیں۔

منہ دینا۔ (۱۶۔ محاورہ) برتن میں جانور وغیرہ کا منہ ڈال دینا، (۱۶۔ محاورہ) دینا۔ متوجہ ہونا۔

منہ ڈالنا۔ (۱۶۔ محاورہ) کسی جانور کا کسی چیز میں منہ داخل کرنا، (۱۶۔ محاورہ) عمل کرنا۔

منہ ڈھانپ ڈھانپ کر رونا۔ (۱۶۔ محاورہ) ہنریت رونا، بیٹنا۔ بہت ہی گریہ و زاری کرنا۔

منہ ڈھانپنا۔ (۱۶۔ محاورہ) منہ پر کڑا ڈالنا۔ رونا۔ فخر کرنا۔

منہ ڈھانک کر رونا۔ (۱۶۔ محاورہ) آزار ناز لینا۔ منہ پر کڑا رکھ کر رونا۔

منہ ڈھانکن۔ منہ ڈھانکن۔ (۱۶۔ محاورہ) منہ چھپانا، چہرے پر پردہ ڈالنا، (۱۶۔ محاورہ) ماتم کرنا۔

منہ ڈرا سا نکل آنا۔ (۱۶۔ محاورہ) چہرے کا ڈبلا اور کڑھ پڑ جانا، (۱۶۔ محاورہ) نہایت لاغر اور ناتواں ہو جانا۔

منہ رکھنا۔ (۱۶۔ محاورہ) پاس رکھنا۔ لحاظ رکھنا۔ توجہ رکھنا۔ زور دینا۔

منہ روشن ہونا۔ (۱۶۔ محاورہ) منہ پر رونق ہونا۔

منہ نہ زبانی۔ (۱۶۔ محاورہ) (۱۱۔ محاورہ) زبانی۔ بے لکھے۔ بلا تحریر، (۱۶۔ محاورہ) لوگ زبان۔ حفظ بر زبان۔

منہ زرد ہو جانا۔ (۱۶۔ محاورہ) چہرہ کا رنگ پیلا پڑ جانا۔ اُداس ہو جانا۔

منہ زور۔ (۱۶۔ محاورہ) بدگام۔ منہ بوجھت۔ بد زبان۔ بُرا خیال رکھنے والا، کسی بگواسی، بچپ نہ رہنے والا، (۱۶۔ محاورہ) شرر گھوڑا۔ وہ گھوڑا جو گام نہ مانے وہ تیز گھوڑا جو روکے نہ رکھے۔

منہ زوری۔ (۱۶۔ محاورہ) بد زبانی۔ بد لگامی۔ سخت کلامی۔ بیہودہ گوئی۔ (۱۶۔ محاورہ) شرارت۔ شوخی۔ سرکشی۔

منہ زوری کرنا۔ (۱۶۔ محاورہ) بد زبانی کرنا۔ بد لگامی کرنا، (۱۶۔ محاورہ) شرارت کرنا۔ شرارت کرنا۔

منہ زہر ہو جانا۔ (۱۶۔ محاورہ) منہ کا مزہ تلخ ہو جانا۔

منہ سامنے نہ ہونا۔ (۱۶۔ محاورہ) محاب یا شرم سے سامنے نہ آنا۔

منہ سخت جانا۔ (۱۶۔ محاورہ) منہ کڑا پڑنا، (۱۶۔ محاورہ) اُداس ہو جانا۔

منہ سنبھالنا۔ (۱۶۔ محاورہ) منہ سنبھالنا۔ اُداس ہونا۔ ناراضی ہونا۔ ٹھیکسی ہونا، (۱۶۔ محاورہ) تھپتھپوں سے منہ لال کرنا۔

منہ سُرخ ہو جانا۔ (۱۶۔ محاورہ) غضب ناک ہو جانا۔ غصے سے چہرہ لال ہو جانا۔ (۱۶۔ محاورہ) جلال یافتہ میں منہ تھمنا۔

منہ سے آہ نہ کرنا۔ (۱۶۔ محاورہ) شکوہ نہ کرنا۔ ظلم و ستم پر بچھڑنا۔

منہ سفید پڑ جانا۔ منہ سفید ہو جانا۔ (۱۶۔ محاورہ) خوف چھاننا۔ سخت حیرت میں پڑ جانا۔ رنگ اڑ جانا۔ چہرہ فق ہو جانا۔

منہ سسکڑ جانا۔ (۱۶۔ محاورہ) چہرے پر ڈبلاہٹ چھا جانا۔ منہ کی رونق نہ رہنا۔

منہ سسکڑنا۔ منہ سسکڑنا۔ (۱۶۔ محاورہ) ناک میوں پڑ جانا۔ منہ نہا نہیں بھیجنا، ترش زبانی، ہنر اسٹی ظاہر کرنا۔

منہ سلوانا کرنا۔ (۱۶۔ محاورہ) کوئی ٹھیک نہیں لگھانا، خصوصاً پیشی چیز کے بعد۔

منہ سنبھالنا۔ (۱۶۔ محاورہ) زبان کو تھامیں کرنا، زبان کو گام دینا۔

منہ سنبھالو۔ (۱۶۔ محاورہ) زبان کو روکو۔ سوچ سمجھ کر بات کرنا۔ زبان درازی مت کرنا۔

منہ سو جا رہنا۔ (۱۶۔ محاورہ) غصے یا بد مزاجی سے منہ بھول رہنا۔

منہ سوکھ جانا، سوکھنا۔ (۱۶۔ محاورہ) منہ خشک ہونا، پیاس یا غم کے باعث منہ پر خشکی آ جانا، (۱۶۔ محاورہ) منہ اڑ جانا، ڈبلا ہونا۔

منہ سھوٹی بیٹ گھوٹی۔ (۱۶۔ محاورہ) ذرا سا منہ اور اتنا بڑا پیٹ۔ بدن کم اور بچہ زیادہ۔ کھاؤ نہاؤ۔

منہ سے آہ نہ کرنا۔ (۱۶۔ محاورہ) شکوہ نہ کرنا۔
منہ سے اُتر لینا۔ (۱۶۔ محاورہ) وعدہ لینا۔ اُتیال کرنا۔
منہ سے اُٹھنا۔ (۱۶۔ محاورہ) منہ سے نکلنا۔ منہ سے باہر لانا، کہنا، دل کی بندھ جانا۔

بات زبان پر لانا۔

منہ سے بات (ایک) چھیننا سے لینا۔ لینا، پکنا۔ ۱۶۔ محاورہ اجرات دوسرا لکھنے لگا اور اس سے پہلے کہہ دینا۔

منہ سے بات نہ لگانا۔ ۱۶۔ محاورہ کہا جاتا۔ بات زبان پر لانا۔

منہ سے بات نہ لکھنا۔ ۱۶۔ محاورہ غصے یا دشت کے سبب بول نہ سکتا۔

منہ سے باتیں نہ لگانا۔ ۱۶۔ محاورہ ۱۱، بدعا دینا، کوسنا، کسی کے متعلق باتیں کرنا۔

منہ سے بس کرنا۔ ۱۶۔ محاورہ ۱۱، زبان سے انکار کرنا۔ منہ سے روکنا۔ کافی سمجھنا۔

منہ سے بولنا۔ ۱۶۔ محاورہ ۱۱، زبان سے بات کرنا۔ جواب دینا۔

منہ سے بولو سر سے کھیلو۔ ۱۱۔ مثل ۱۱، بات چیت کرو۔ خاموش نہ رہو۔

منہ سے بولے نہ سر سے کھیلے۔ ۱۱۔ مثل ۱۱، بالکل خاموش ہے۔ بات کرتا ہے نہ اشارہ۔

منہ سے چھوٹنا۔ ۱۶۔ محاورہ ۱۱، بولنا، جواب دینا۔ زبان سے کچھ کہنا۔

منہ سے چھول جھڑنا۔ ۱۶۔ محاورہ ۱۱، نہایت خوش گفتار اور فصیح بولنا، شیریں کلام بولنا، طنز، بد زبان بولنا۔

منہ سے لو، چھوٹو۔ ۱۶۔ محاورہ ۱۱، کچھ تو بولو۔ جواب تو دو۔ ہاں یا نہیں کہو۔ منہ سے لو کہو۔ ۱۶۔ محاورہ ۱۱، بات تو کرو۔ زبان تو لادو۔

منہ سے دودھ پکنا۔ ۱۶۔ محاورہ ۱۱، دان اور ناسمجھ بولنا۔ تجربہ کار بولنا۔

منہ سے دودھ کی بو آنا۔ ۱۶۔ محاورہ ۱۱، نادان بچہ بولنا، کم عقل اور بوقت بولنا۔

منہ سے رال چھکی پڑنا۔ ۱۶۔ محاورہ ۱۱، نہایت الجھنا، اذہد خواہش بولنا۔

منہ سے سنا چاہتے ہو۔ ۱۶۔ محاورہ ۱۱، گالیاں کمانے دینے، کوئی چاہتا ہے۔ منہ سے سیاہی دھونا۔ ۱۶۔ محاورہ ۱۱، بدنامی مٹانا۔ سیاہی دور کرنا۔

منہ سے کلیجہ نکل پڑنا۔ ۱۶۔ محاورہ ۱۱، دم اٹھ جانا، دل گھیر جانا، جی اٹھانا، گھبرا کر رزم نکل جانا۔

منہ سے کچھ کچھ نہ لکھنا۔ ۱۶۔ محاورہ ۱۱، کہنا کچھ جہان زبان سے اُس کے خلات نہ لکھنا۔

منہ سے کیا چھول جھڑتے ہیں۔ ۱۶۔ محاورہ ۱۱، کیا بڑھکھٹ باتیں کرتے ہیں (۲) طنز، ناگوار باتوں پر بھی کہتے ہیں۔

منہ سے لام کاف مست نہ لکھنا۔ ۱۶۔ محاورہ ۱۱، بد زبانی نہ کرو۔ خاموش رہو۔

منہ سے لعل لکھنا۔ ۱۶۔ محاورہ ۱۱، نہایت خوش کلام اور خوش گفتار بولنا، فصاحت اور شیریں زبانی سے کلام کرنا۔

منہ سے لگانا۔ ۱۶۔ محاورہ ۱۱، پینے کے لیے کوئی ظرف منہ سے لگانا۔ لب آشنا کرنا، دوسرے کے منہ سے کوئی ظرف لگانا، ۱۳، پیلنے والا سا منہ سے لگانا۔

منہ سے منہ ملانا۔ ۱۶۔ محاورہ ۱۱، جو ماچانی کرنا، بوس دکر کرنا، ہم کلام بولنا۔

زبان سے زبان ملانا، ۱۳، گستاخانہ بات چیت کرنا۔

منہ سے مہا ماہی۔ ۱۶۔ مثل ۱۱، خاطر سے خاطر اور محبت سے۔

منہ سے نام نکالنا۔ ۱۶۔ محاورہ ۱۱، کسی چیز کا تذکرہ کرنا، ۱۴، دعویٰ کرنا، کسی بات کا سہو سے ذکر کرنا۔

منہ سے نکل جانا (نکلنا)۔ ۱۶۔ محاورہ ۱۱، یہ ساختہ کوئی بات زبان سے نکل جانا۔

منہ سے نکلی کوٹھوں چڑھی۔ ۱۶۔ مثل ۱۱، بات زبان سے کہتے ہی مشہور ہو جاتی ہے۔

منہ سے نکل ہوئی پرانی بات۔ ۱۶۔ مثل ۱۱، کوئی بات کہہ ڈالنے کے بعد راز نہیں رہتی۔

منہ سے نیک و بد نہ لکھنا۔ ۱۶۔ محاورہ ۱۱، جڑ بھلا کہنا۔

منہ سیا جانا۔ خاموش کیا جانا۔ منہ پر نمبر لگا جانا۔

منہ سیاہ کرنا۔ ۱۶۔ محاورہ ۱۱، منہ کالا کرنا۔ بدنام کرنا۔ گلے کا میکا لگانا، دہر خضاب لگانا۔

منہ سیدھا کر دینا۔ خوب مارنا۔

منہ سہی دینا۔ ۱۶۔ محاورہ ۱۱، خاموش کر دینا۔ منہ بند کر دینا۔

منہ سینا۔ ۱۶۔ محاورہ ۱۱، خاموش کرنا۔ چپ کرنا، ۲، خاموش ہونا، چپ کرنا، ۳، راز رکھنا، ۱۱، رازت دینا۔

منہ شکر سے بھر دینا۔ ۱۶۔ محاورہ ۱۱، خوش خبری سنانے کے عوض میں منہ میٹھا کرنا۔

منہ فنی ہو جانا۔ منہ فنی ہونا۔ ۱۶۔ محاورہ ۱۱، منہ سفید پڑ جانا۔ اوسان چلتے رہنا۔ گھبرانا، ڈر جانا، ڈرعب میں آ جانا، خوفزدہ ہو جانا۔

منہ قبیلہ کی طرف مڑ جانا۔ ۱۶۔ محاورہ ۱۱، مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ مرتے وقت نیک آدمی کا منہ قبیلے کی طرف ہو جاتا ہے۔

منہ کا پھو پھو۔ ۱۱، صفت، بد زبان، بد لگام۔ منہ چھوٹ۔

منہ کا ٹھو بڑا ہو جانا۔ ۱۶۔ محاورہ ۱۱، پٹ جانا۔ مارا کھا کر منہ ٹوچ جانا۔

منہ کا روغن اڑ جانا۔ ۱۶۔ محاورہ ۱۱، چہرے کی آب جاتی رہنا۔

منہ کا سیتھا۔ ۱۶، صفت، اوجھ سے کالیکا۔

منہ کا کچا۔ ۱۶، صفت، وہ کھوڑا جو کھانے کے جھینے کو نہ سہارا سکے، نرم منہ کا گھوڑا۔ ۱۴، اصل مرغ، ۱۳، وہ آدمی جس کی بات ناقابل اعتبار ہو۔

منہ کا کڑوا۔ ۱۶۔ محاورہ ۱۱، منہ زور، مضبوط دھاگا۔

منہ کا کہا ہونا۔ ۱۶۔ محاورہ ۱۱، منہ سے نکلی ہوئی بات کا ہو جانا۔ کبے کے مطابق ہونا۔

منہ کالا۔ ۱۶۔ صفت، بد نام۔ رسوا، ۲، بد افعال۔ بد کردار، بد دعا، خدا غارت کرے۔

منہ کا لاجات اُجالا۔ ۱۶۔ مثل ۱۱، شریفوں کی اولاد مگر عمل بڑے۔

منہ کالا کرنا۔ ۱۶۔ محاورہ ۱۱، چہرے پر سیاہی ملنا، رسوا کرنا، بد نام کرنا، ۲، زنا کرنا، بد فعلی کرنا۔

منہ کا منہ میں ہاتھ کا ہاتھ میں نوالہ رکھ گیا۔ ۱۶۔ مثل ۱۱، اس موقع پر بولتے ہیں جب انسان کوئی حد سے گزرتا ہے، گستاخانہ چھوڑ دے۔

مُنہ کا بیٹھا۔ ۱۷۔ صف، خلیق، شیریں گفتار۔

مُنہ کا بیٹھا پیٹ کا کھوٹا۔ ۱۱۔ مثل، باتیں دوستوں کی سی مگر دل میں عداوت۔

مُنہ کا لوالہ۔ ۱۳۔ مذاق لغز دین، نہایت سہل انداز سان کام۔

مُنہ کا لوالہ نہیں۔ ۱۱۔ مثل، آسان کام نہیں ہے۔

مُنہ کا لوالہ سمجھنا۔ ۱۷۔ محاورہ، ادنیٰ اور آسان سمجھ لینا۔

مُنہ کا لوالہ ہو جانا۔ ۱۱۔ محاورہ، منہ میں چلا جانا، ۱۲۔ سہل اور آسان ہو جانا۔

مُنہ کا لوالہ اڑ جانا۔ ۱۱۔ محاورہ، جبرے کی آب و تاب جاتی رہنا۔

مُنہ سے روپ ہو جانا۔

مُنہ کیسے کسی طرح پھینکنا۔ ۱۳۔ محاورہ، کناہ ہے۔ کمال غصہ اور فطرت سے بہت خفا ہونا۔

مُنہ کرنا۔ ۱۷۔ محاورہ، سوراخ کرنا، چھید کرنا، ۲۲۔ زخم یا چھوڑے کا سوراخ ظاہر ہونا۔

چھوٹا سا، ۳۔ لحاظ کرنا، پاس کرنا، منہ سامنے کرنا، ۵۔ لالچ کرنا۔

مُنہ کس کا ہے۔ ۱۶۔ محاورہ، کسی کی مجال میں کسی کا حوصلہ نہیں۔

مُنہ کلنا۔ ۱۱۔ محاورہ، کسی کے خلاف بکھنے سے رکتا زبان بند ہونا۔

مُنہ کو آگ لگانا، مُنہ کو جھلسا لگانا۔ ۱۷۔ محاورہ، ملاقات ترک کرنا۔ پٹنا جینا

چھوڑ دینا، ۲۲۔ کو سکتا۔

مُنہ کو ہنوا۔ ۱۱۔ محاورہ، اپنے آپ کو کسی کام کے لائق کرنا۔ قابلیت پیدا کرنا۔

مُنہ کو بھر لینا۔ ۱۱۔ محاورہ، دکھی کرنا۔ سوگرائی کرنا، ۲۲۔ انکار کرنا۔

مُنہ کو جگر آنا، دیکھنے سے کوکبیا آنا۔ جی بھیرانا۔ ضبط نہ ہو سکتا۔

مُنہ کو خون لکنا۔ ۱۷۔ محاورہ، خون کی چاٹ لکنا۔ خون کا مزہ پڑ جانا، ۱۲۔

رشوت کا عادی ہونا۔

مُنہ دکھانہ سکتا۔ ۱۷۔ محاورہ، منہ سامنے نہ کر سکتا۔ سامنے جاتے ہوئے شرم آنا۔

مُنہ کو سنبھالنا۔ ۱۷۔ محاورہ، بدزبانی سے باز آنا۔ دیہودہ باتیں کرنے سے بچنا۔

مُنہ کو سات ٹوڑوں کی کالک لگ جانا۔ ۱۷۔ محاورہ، سخت

بدنامی ہونا۔ رسوائی ہونا۔

مُنہ کو قفل دینا۔ مُنہ کو قفل لگانا۔ ۱۱۔ محاورہ، خاموش، چھپ چھپا کرنا، ۲۲۔ کھانے پینے سے رکتا۔

مُنہ کو کالک لگانا۔ ۱۳۔ محاورہ، ہڈیاں کرنا، رسوا کرنا، کھٹک کا ٹیکا لگانا۔

مُنہ کو کلیجہ آنا۔ ۱۷۔ محاورہ، دم اٹھنا۔ غم و غصہ برداشت نہ ہو سکتا، دل

نہایت بیزار ہونا، بہت جی بھیرانا۔

مُنہ کو لگام دو۔ ۱۱۔ محاورہ، بدزبانی نہ کرنا، زبان سنبھال کر بات کرنا۔

مُنہ کو لگام نہیں۔ ۱۱۔ مثل، چپ نہیں رہتا۔ بے سوچے سمجھے

بول اٹھتا ہے۔

مُنہ کو لگا ہونا۔ ۱۷۔ محاورہ، چسکا پڑنا، ہونا۔

مُنہ کو لکنا۔ ۱۷۔ محاورہ، مزہ پڑنا۔ چسکا پڑنا۔ زبان کو چاٹ پڑنا، ۱۲۔

خوش ذائقہ معلوم ہونا۔

مُنہ کو کوکھ لگے۔ (بندھا، چھوڑا) جلسہ جانے۔ تیار ہو جائے۔ برہان ہو جائے۔

مُنہ کو لہو لکنا۔ مُنہ کو خون لکنا۔ ۱۱۔ محاورہ، خون کی چاٹ پڑ جانا۔ شکار کا مزہ پڑنا

۱۲۔ رشوت کا عادی ہو جانا، حال مفت کمانے کی عادت پڑ جانا۔

مُنہ کو مزہ لگنا دینا۔ ۱۷۔ محاورہ، چھوڑا بنا دینا۔ زبان کو چاٹ ڈال دینا۔

مُنہ کو موڑنا۔ ۱۱۔ محاورہ، ہنر پھیرنا۔ بے رغبتی کرنا۔ بے مروتی کرنا۔

مُنہ کہاں ہے۔ ۱۷۔ محاورہ، کیا ناب طاقت ہے کیا مجال ہے۔

مُنہ کھائے آنکھ لجاٹے۔ ۱۱۔ مثل، آسان کرنے والے کے ساتھ

مروت کرنا ہی پڑتی ہے۔

مُنہ کھل جانا۔ ۱۷۔ محاورہ، دہن کشا، ۲۲۔ محاورہ، ۲۲۔ منہ کھٹ ہو جانا، ۲۲۔

ہونا، گتھ ہو جانا، ۳۲۔ گتھ کھل جانا، ۳۲۔ گتھ کھل جانا، ۳۲۔ گتھ کھل جانا، ۳۲۔

بے نقاب ہو جانا، ۱۵۔ ازالہ بکر ہو جانا۔

مُنہ کھلنا۔ ۱۷۔ محاورہ، دہن فراخ، ۱۵۔ بد زبان ہونا، ۳۱۔ بیان کرنے یا کہنے پر کھلا

ہونا، چہرہ بے نقاب ہو جانا۔

مُنہ کھلوانا۔ ۱۷۔ محاورہ، منہ فراخ کرنا، ۲۲۔ بولنے پر مجبور کرنا، زبان کھلوانا، ۲۲۔ گتھ

بے نقاب کرنا۔ بات کرنا، کھل جانا، ۲۲۔ زبان سے کھلوانا، ۲۲۔ سوال کرنا۔

مُنہ کھول کر رہ جانا۔ ۱۷۔ محاورہ، کچھ بکتے بکتے خاموش ہو جانا، ۲۲۔ مشتاق

رہ جانا۔

مُنہ کھولنا۔ ۱۱۔ محاورہ، زبان کھولنا، بات کرنا، کھلنا، ۲۲۔ کھلنا، ۲۲۔ باہمی

زبان چلانا، ۳۲۔ نقاب اٹھانا۔ گتھ کھٹ پٹنا۔

مُنہ کی آنا۔ ۱۷۔ محاورہ، روبرو چوٹ کرنا۔ سامنے غصے کی بات کہنا۔

مُنہ کی آوٹ کرنا۔ ۱۲۔ محاورہ، پردہ کھٹنے کے لیے کوئی چیز چھوڑنے کے سامنے کرنا۔

آگ باحسب کارگی سے بکھنے کے لیے کوئی چیز بیچ لینا، ۱۱۔

مُنہ کی بات چھین لینا۔ ۱۷۔ محاورہ، دوسرے کے دل کی بات کہنا، ۲۲۔

مُنہ کی چینی۔ ۱۱۔ محاورہ، وہ تلوار جس کی باڑھ نہ ٹھٹھے۔ ۲۲۔ دوسرے کی

چینی عورت۔

مُنہ کی کھانا۔ ۱۱۔ محاورہ، منہ پر چوٹ کھانا، اوندھے منگرنے سے بگڑنا، ۲۲۔ تھپڑ

کھانا، طمانچہ کھانا، ۳۲۔ مزا پانا، مار کھانا، ۲۲۔ شرمندہ ہونا، سخت اٹھانا، ۲۲۔ صاف

دھوکا کھانا، کسی کے عمل میں آنا، ۲۲۔ ہار جانا، نکت کھانا، اپنے منہ سے آپ نکل

ہونا، ۲۲۔ نقصان اٹھانا۔

مُنہ کی کھلانا، کھلوانا، ۱۷۔ محاورہ، شرمندہ کرنا، نام نانا۔

مُنہ کی گتھی بولونی تو کیا کرے گا کوئی۔ ۱۱۔ مثل، اس موقع پر بولتے ہی جب کوئی

شخص جان بوجھ کر بے شرمی اختیار کرتا ہے۔

مُنہ کی لونی جانا۔ ۱۷۔ محاورہ، بے شرم ہونا، بے غیرتی چھانا، ۲۲۔ شرم و مہیا

جانی رہنا۔

مُنہ کی مکھی نہ اڑا سکتا۔ ۱۷۔ محاورہ، بہت کمزور و ناتواں ہو جانا۔

مُنہ کی میٹھی یا تھوڑی جھوٹی۔ ۱۷۔ مثل، میٹھی باتیں تو کرتی ہے مگر دیکھ دلائی

پلہ نہیں۔

مُنہ کے آگے تھنڈی نہیں۔ بڑا بھوکا سی ہے۔

مُنہ کے بل (بھل) آنا۔ مُنہ کے بل (بھل) کرنا۔ ۱۱۔ محاورہ، اہل مزاج

کہ چہرہ زمین پر لگے۔ زلت اٹھانا۔ ذلیل ہونا۔

مُنز کے کوتے اُجھانا۔ ۱۶۔ محاورہ (چہرہ سفید پڑ جانا۔
مُنز کے لالچی نہیں۔ ۱۷۔ محاورہ) اس قابل نہیں کہ اس سے بات
کی جائے۔

مُنز کے لچین جھڑنا۔ ۱۷۔ محاورہ (شرم دھما جاتی رہنا۔ بے غیرت ہو
جانا۔

مُنز کیا ہے۔ ۱۷۔ محاورہ (کیا وصلہ ہے۔ کیا مجال ہے۔
مُنز کیل دینا۔ مُنز کھلنا۔ ۱۶۔ محاورہ) محاورہ یا مُنز سے منکر بند کرنا، ذہریلے
جانور کے مُنز کو کاٹنے کے قابل نہ دیکھنا، خاموش کر دینا، رشوت سے

کراہنے خلاف جانے سے باز رکھنا۔

مُنز گڑھیا میں دھوڑ رکھو۔ ۱۶۔ (مُنز) اس بات کی اُمید نہ رکھو۔

مُنز لال کرنا۔ ۱۱۔ محاورہ (مُنز پر تھپڑ مار کر چہرہ مُمرخ کر دینا، پانی وغیرہ
سے مُنز مُمرخ کرنا۔

مُنز لال ہو جانا۔ ۱۶۔ محاورہ (بھٹے سے چہرہ مُمرخ ہو جانا، ناموری حاصل ہونا۔
کامیاب ہونا۔ تھپڑ لگنے سے چہرہ مُمرخ ہو جانا۔

مُنز لپیٹ کر پڑا رہنا۔ ۱۶۔ محاورہ (مُحکین اور اُداس ہو کر پڑا رہنا۔
ختم کے مارے مَنز پر کپڑا ڈال کر لپیٹ رہنا۔

مُنز لٹکانا۔ ۱۱۔ محاورہ (غصہ ہونا۔ ناراض ہونا، شرمندگی سے مُنز جھکانا، ۳،
کئی دو اعلیٰ کر لوبت چلنے کے لیے منکر نیچے کی طرف کرنا۔

مُنز لگا۔ ۱۶۔ صفت (سر پڑھا۔ موت کے لیے مُنز لگی۔
مُنز لگانا۔ ۱۶۔ محاورہ) مُنز سے جھڑنا، مُنز سے جھڑنا، جھٹلانا، ۳،

کھانا بچھنا۔ زبان پر رکھنا، دم گستاخ بنانا، بے ادب کرنا، سر پڑھانا
(۵، یا بنانا۔ مصاحب بنانا، ۶، عزت دینا۔ توجہ کرنا۔ مہربانی سے

پیش آنا، حمایت کرنا۔
مُنز لگائی ڈومنی گا دے تال بے تال۔ مُنز لگائی ڈومنی آئی
نیکوں سمیت۔ ۱۶۔ (مُنز) اس وقت کہتے ہیں۔ جب ذرا سی مہربانی سے
کوئی سر پڑھنے لگے۔

مُنز لگنا۔ ۱۶۔ محاورہ (مُنز سے جھوٹا ہونا، مصاحب بننا۔ بارہنار، ۳، عزت سے
پیش آنا، ۴، سر پڑھنا، گستاخ ہونا، ۵، مقابلہ بننا۔ برابری کرنا، ۶، چکا پڑنا۔

مُنز لگنا۔ ۱۶۔ محاورہ (مُنز سے جھوٹا ہونا، مصاحب بننا۔ بارہنار، ۳، عزت سے
پیش آنا، ۴، سر پڑھنا، گستاخ ہونا، ۵، مقابلہ بننا۔ برابری کرنا، ۶، چکا پڑنا۔

مُنز لگنا۔ ۱۶۔ محاورہ (مُنز سے جھوٹا ہونا، مصاحب بننا۔ بارہنار، ۳، عزت سے
پیش آنا، ۴، سر پڑھنا، گستاخ ہونا، ۵، مقابلہ بننا۔ برابری کرنا، ۶، چکا پڑنا۔

مُنز لگنا۔ ۱۶۔ محاورہ (مُنز سے جھوٹا ہونا، مصاحب بننا۔ بارہنار، ۳، عزت سے
پیش آنا، ۴، سر پڑھنا، گستاخ ہونا، ۵، مقابلہ بننا۔ برابری کرنا، ۶، چکا پڑنا۔

مُنز لگنا۔ ۱۶۔ محاورہ (مُنز سے جھوٹا ہونا، مصاحب بننا۔ بارہنار، ۳، عزت سے
پیش آنا، ۴، سر پڑھنا، گستاخ ہونا، ۵، مقابلہ بننا۔ برابری کرنا، ۶، چکا پڑنا۔

مُنز لگنا۔ ۱۶۔ محاورہ (مُنز سے جھوٹا ہونا، مصاحب بننا۔ بارہنار، ۳، عزت سے
پیش آنا، ۴، سر پڑھنا، گستاخ ہونا، ۵، مقابلہ بننا۔ برابری کرنا، ۶، چکا پڑنا۔

مُنز لگنا۔ ۱۶۔ محاورہ (مُنز سے جھوٹا ہونا، مصاحب بننا۔ بارہنار، ۳، عزت سے
پیش آنا، ۴، سر پڑھنا، گستاخ ہونا، ۵، مقابلہ بننا۔ برابری کرنا، ۶، چکا پڑنا۔

مُنز لگنا۔ ۱۶۔ محاورہ (مُنز سے جھوٹا ہونا، مصاحب بننا۔ بارہنار، ۳، عزت سے
پیش آنا، ۴، سر پڑھنا، گستاخ ہونا، ۵، مقابلہ بننا۔ برابری کرنا، ۶، چکا پڑنا۔

مُنز لگنا۔ ۱۶۔ محاورہ (مُنز سے جھوٹا ہونا، مصاحب بننا۔ بارہنار، ۳، عزت سے
پیش آنا، ۴، سر پڑھنا، گستاخ ہونا، ۵، مقابلہ بننا۔ برابری کرنا، ۶، چکا پڑنا۔

مُنز لگنا۔ ۱۶۔ محاورہ (مُنز سے جھوٹا ہونا، مصاحب بننا۔ بارہنار، ۳، عزت سے
پیش آنا، ۴، سر پڑھنا، گستاخ ہونا، ۵، مقابلہ بننا۔ برابری کرنا، ۶، چکا پڑنا۔

سے کہا تھا۔

مُنز مانگا بر پانا۔ ۱۶۔ (مُنز) دل کے موافق شوہر ملا، حسب دلخواہ کام ہوا
جو چاہتا ہوا۔

مُنز مانگنا۔ ۱۶۔ محاورہ (مزید کرنا۔
مُنز مانگی مراد۔ ۱۶۔ (مُنز) دلی خواہش، دلی تمنا۔

مُنز مانگی مراد نہیں ملتی۔ ۱۶۔ (مُنز) اپنا چاہا نہیں ہوتا ہے۔ جو خواہتا
ہے وہ ہی ہوتا ہے۔

مُنز مانگی موت نہیں ملتی۔ ۱۶۔ (مُنز) جو آدمی چاہتا ہے۔ وہ نہیں ہوتا
خدا کا چاہتا ہوتا ہے۔

مُنز مانگے دام۔ ۱۶۔ (مُنز) طلب کی ہوئی قیمت۔
مُنز مہک پڑنا۔ ۱۶۔ محاورہ (دیکھئے مُنز مہک پڑنا۔

مُنز کو مسل ڈالنا۔ ۱۶۔ محاورہ (مُنز کو ہاتھ سے روک ڈالنا، ۲، رکنائے مَدَنان
شکست جواب دینا۔

مُنز ملاحظہ۔ ۱۶۔ (مُنز) ملاحظہ پاسداری۔
مُنز موڑنا۔ ۱۶۔ محاورہ (مُنز پٹانا، شوگرداں ہونا۔ کسی کے شریک حال نہ ہونا۔

پہلو تھکرنا، ۱۶۔ (مُنز) توجہ نہ کرنا، ۳، باقی ہونا، ۴، پوری نہ کرنا۔ باز رہنا
(۵، انکار کرنا، ۶، شکست کھانا۔ پسا ہونا، ۷، بے وفائی کرنا، ۸، ٹھکانا

بے مروتی کرنا۔
مُنز میٹھا کرنا۔ ۱۶۔ محاورہ (۱، میٹھا کھانا، ۲، میٹھا کھانا، ۳، عنایت
فرمانا۔ دینا۔ بخشنا، ۴، نڈرا نہ دینا، ۵، رشوت دینا، ۶، نسبت
کرنا۔ منگنی کرنا۔

مُنز میں آنا۔ ۱۶۔ محاورہ (تہان پر آنا۔ زبان سے نکلنا۔
مُنز میں آیا سو بک دیا۔ ۱۶۔ محاورہ) بے سوچے سمجھے بات کرنے
دوسے کی نسبت کہتے ہیں۔

مُنز میں بات کرنا۔ ۱۶۔ محاورہ (مُنز میں بولنا۔ اس طرح بولنا کہ سمجھ میں نہ لگے
بہت بچکے بچکے بات کرنا۔

مُنز میں پانی بچھرانا۔ ۱۶۔ محاورہ (ترشی کے خیال یا کسی عمدہ چیز کی خواہش
کرنا۔ مُنز میں لعاب آجانا، ۲، جی لپٹانا۔ طبیعت کا نہایت خواہش کرنا، مزہ یاد
آنا۔ شوق پیدا ہونا۔

مُنز میں پانی ڈسکانا، جو آنا۔ ۱۶۔ محاورہ (مُنز میں پانی کے قطرے
پھینکانا۔ اخیر وقت کام آنا۔

مُنز میں پڑنا۔ ۱۶۔ محاورہ (کھانے میں آنا۔ مُنز میں جانا، ۲، مشہور ہونا۔
زبان زد ہونا۔

مُنز میں پڑھنا۔ ۱۶۔ محاورہ (چپکے چپکے پڑھنا، ایسا، سست پڑھنا، ۲، دوسرے
کی سمجھ میں نہ آئے۔

مُنز میں تنکا لیتنا۔ ۱۶۔ محاورہ (دانتوں میں تنکا دبانا، ۲، عاجزی کرنا، ہاتھ
چوڑھنا پاؤں پڑنا۔

مُنز میں تھوکر بولنا۔ ۱۶۔ محاورہ (تھوکر دوسرے پر مٹی ہونی، ۲، مٹی ہونی، ۳،
مُنز میں خاک۔ ۱۶۔ محاورہ (بڑا چاہنے والے کی بات پر کہا جاتا ہے وہ ہتھیانہ
کلام کے جواب میں۔

مُنز میں تھوکر بولنا۔ ۱۶۔ محاورہ (تھوکر دوسرے پر مٹی ہونی، ۲، مٹی ہونی، ۳،
مُنز میں خاک۔ ۱۶۔ محاورہ (بڑا چاہنے والے کی بات پر کہا جاتا ہے وہ ہتھیانہ
کلام کے جواب میں۔

مُنز میں تھوکر بولنا۔ ۱۶۔ محاورہ (تھوکر دوسرے پر مٹی ہونی، ۲، مٹی ہونی، ۳،
مُنز میں خاک۔ ۱۶۔ محاورہ (بڑا چاہنے والے کی بات پر کہا جاتا ہے وہ ہتھیانہ
کلام کے جواب میں۔

مُنز میں تھوکر بولنا۔ ۱۶۔ محاورہ (تھوکر دوسرے پر مٹی ہونی، ۲، مٹی ہونی، ۳،
مُنز میں خاک۔ ۱۶۔ محاورہ (بڑا چاہنے والے کی بات پر کہا جاتا ہے وہ ہتھیانہ
کلام کے جواب میں۔

مُنز میں تھوکر بولنا۔ ۱۶۔ محاورہ (تھوکر دوسرے پر مٹی ہونی، ۲، مٹی ہونی، ۳،
مُنز میں خاک۔ ۱۶۔ محاورہ (بڑا چاہنے والے کی بات پر کہا جاتا ہے وہ ہتھیانہ
کلام کے جواب میں۔

مُنز میں تھوکر بولنا۔ ۱۶۔ محاورہ (تھوکر دوسرے پر مٹی ہونی، ۲، مٹی ہونی، ۳،
مُنز میں خاک۔ ۱۶۔ محاورہ (بڑا چاہنے والے کی بات پر کہا جاتا ہے وہ ہتھیانہ
کلام کے جواب میں۔

مُنز میں تھوکر بولنا۔ ۱۶۔ محاورہ (تھوکر دوسرے پر مٹی ہونی، ۲، مٹی ہونی، ۳،
مُنز میں خاک۔ ۱۶۔ محاورہ (بڑا چاہنے والے کی بات پر کہا جاتا ہے وہ ہتھیانہ
کلام کے جواب میں۔

منہ میں دانت نہ پیٹ میں آنت - ۱۳۔ مثل، ایسا بڑھا ہے کہ
 نہ منہ میں دانت رہے ہیں نہ ہاتھ کے لیے پیٹ میں آنتریاں -
 بہت ہی بڑھا۔

منہ میں دانت جانا - ۱۶۔ عمارہ (کچھ تھوڑا سا کھانا
 منہ میں روٹی سر پر جوتی - ۱۷۔ مثل، بہت بے عزتی سے روٹی ملنے
 پر ہوتے ہیں۔

منہ میں زبان حلال ہے - ۱۷۔ مثل، منہ میں زبان پنج بات کھے کے لیے ہے
 حلال ایک واسطے کہا کہ کوئی حلال چیز کو منہ میں لے جاتا ہے۔

منہ میں زبان رکھنا - منہ میں زبان ہوتا - ۱۷۔ عمارہ، گوبائی کی طاقت
 رکھنا۔ بات کر سکتا۔

منہ میں زبان نہ ہونا - ۱۷۔ عمارہ، گونگا ہونا۔ یوں نہ سکرنا، خاموش رہنا۔
 بات نہ کر سکتا۔

منہ میں زبان نہیں - ۱۶۔ عمارہ، نہایت عزیز طبیعت اور خاموش
 آدمی ہے۔

منہ میں زبان ہے - ۱۷۔ مقولہ، کہتے اور بولنے کی طاقت ہے۔ بات
 کرنے کی جرأت ہے۔

منہ میں سب کچھ دل میں خاک نہیں - ۱۷۔ مثل، محض ظاہر داری
 ہی ظاہر داری۔

منہ میں صالون کھلا ہوتا - ۱۳۔ عمارہ، منہ چمکا اور پرمزہ ہونا۔
 منہ میں فضل لگ جانا - ۱۷۔ عمارہ، خاموش ہو جانا۔

منہ میں کالک لگ جانا - ۱۶۔ عمارہ، بدنامی ہونا۔ رسوائی ہونا۔
 منہ میں کئے دانت ہیں - ۱۷۔ مثل، تم کون ہو۔ کیا حالات ہیں، کیا
 طاقت ہے، کیا کر سکتے ہو۔

منہ میں لنگھانا - ۱۶۔ عمارہ، آہستہ آہستہ گانا۔
 منہ میں گھٹھنیاں بھر کر بیٹھنا - ۱۶۔ عمارہ، چپ ہو کر بیٹھنا۔

منہ میں گھٹھنیاں بھری ہوتی - ۱۶۔ عمارہ، خاموش رہنا۔
 منہ میں کھی ٹنکر - ۱۷۔ مثل، اس موقع پر کہتے ہیں جب کوئی خوشخبری سنے
 منہ میں تک جانا - ۱۷۔ عمارہ، خاموشی ہونا۔

منہ میں لگام نہ ہونا - ۱۷۔ عمارہ، زبان دراز ہونا۔
 منہ میں لو کا دینا - ۱۷۔ عمارہ، منہ جھلسنا، کوئی بیہودہ بات کہے
 تو کہتے ہیں۔

منہ میں مومتا - ۱۷۔ عمارہ، ذلیل کرنا۔ خفیف کرنا۔
 منہ میں ہنر لگانا - ۱۶۔ عمارہ، خاموشی اختیار کرنا، سادھنا۔

منہ میں نام پھرنے - ۱۶۔ عمارہ، کسی کا نام معلوم ہونا، گریبانہ آنا۔
 منہ میں پڑنا۔ دانت کاٹنا۔ بیوقوف کی طرح ہنسنا، جواب نہ دینا پڑنا۔

منہ لکل آنا - دیکھنے لاضر ہو جانا، چہرہ کمزور ہونا۔
 منہ لکل ڈھنچوں چڑھی - ۱۱۔ مثل، کسی بات کے کہتے ہی اس کا مشہور
 ہو جانا۔

منہ نہ پھیرنا - ۱۶۔ عمارہ، دلیری سے مقابلے پر کھڑا رہنا، سمجھ نہ سنانا۔

منہ نونچ لینا - ۱۶۔ عمارہ، اچھرو یا خون سے کھوج ڈالنا۔
 منہ نہ ٹرنا - ۱۶۔ عمارہ، حوصلہ نہ ہونا، کہنے کی جرأت نہ ہونا۔

منہ نہ رکھنا - ۱۶۔ عمارہ، شرم کے باعث روپوش ہو جانا۔
 منہ نہ دیکھنا - ۱۶۔ عمارہ، صورت سے بیزار ہونا، از حد بیزار ہونا۔

منہ نہ کھلاؤ - زبان نہ کھلاؤ - رہتے دو - بس چپ - ورنہ کچھ کھول
 کے نکھ دیا جائے گا۔

منہ نہ لگانا - ۱۶۔ عمارہ، منہ کے پاس نہ لانا، توجہ نہ کرنا، اس لیے توجہ
 سمجھ کر بات نہ کرنا۔ دوست نہ بنانا۔

منہ نہیں - ۱۶۔ روزمرہ، حوصلہ نہیں۔ جرات نہیں۔
 منہ ہونا - ۱۶۔ عمارہ، سوراخ ہونا، پاس دلچا ہونا، حوصلہ ہونا۔

منہ کیا ہے - ۱۶۔ عمارہ، کیا مجال ہے۔
 منہ ہی منہ مارے اور لوہے کو پیکا کرے - ۱۷۔ مثل، اپنا ازام مظلوم
 کر تو پے خود ہی سزا دے اور خود ہی بناہ مانگے۔

منہ ہی منہ میں - ۱۶۔ مثل، منہ، چپکے چپکے ہونٹوں ہونٹوں میں۔
 منہ ہی منہ میں کہتا - ۱۶۔ عمارہ، اچھے چپکے کہتا - اس طرح آہستہ آہستہ
 بولنا کہ دوسرا نہ سمجھ سکے۔

منہ ہے - ۱۶۔ مثل، شرم۔ پاس ہے۔ لاپاہ ہے۔ مروت ہے (۲، طنز)،
 طاقت نہیں۔ مجال نہیں۔

منہ - (من، ہا، با، ج، ظمن)۔
 منہ ظھولاً، (من، ہا، با، ج، ظمن، لاق، طغنے، قشیتا)۔

منہا - (من، ہا، با، ج، ظمن)۔
 منہا کرنا - (من، ہا، با، ج، ظمن، لاق، طغنے، قشیتا)۔

منہا - (من، ہا، با، ج، ظمن)۔
 منہا کرنا - (من، ہا، با، ج، ظمن، لاق، طغنے، قشیتا)۔

منہا - (من، ہا، با، ج، ظمن)۔
 منہا کرنا - (من، ہا، با، ج، ظمن، لاق، طغنے، قشیتا)۔

منہا - (من، ہا، با، ج، ظمن)۔
 منہا کرنا - (من، ہا، با، ج، ظمن، لاق، طغنے، قشیتا)۔

منہا - (من، ہا، با، ج، ظمن)۔
 منہا کرنا - (من، ہا، با، ج، ظمن، لاق، طغنے، قشیتا)۔

منہا - (من، ہا، با، ج، ظمن)۔
 منہا کرنا - (من، ہا، با، ج، ظمن، لاق، طغنے، قشیتا)۔

منہا - (من، ہا، با، ج، ظمن)۔
 منہا کرنا - (من، ہا، با، ج، ظمن، لاق، طغنے، قشیتا)۔

منہا - (من، ہا، با، ج، ظمن)۔
 منہا کرنا - (من، ہا، با، ج، ظمن، لاق، طغنے، قشیتا)۔

منہا - (من، ہا، با، ج، ظمن)۔
 منہا کرنا - (من، ہا، با، ج، ظمن، لاق، طغنے، قشیتا)۔

منہا - (من، ہا، با، ج، ظمن)۔
 منہا کرنا - (من، ہا، با، ج، ظمن، لاق، طغنے، قشیتا)۔

منہا - (من، ہا، با، ج، ظمن)۔
 منہا کرنا - (من، ہا، با، ج، ظمن، لاق، طغنے، قشیتا)۔

موت پلا۔ (موت پلا، لا، ۱۵) جنوبی ہند میں ایک مسلم قوم جو عرب نسل سے ہے اور مالا بار میں آباد ہے۔

موت۔ (۱-۵)۔ ۱۔ ۱۔ پیشاب (۲) نظر، منی، ۳۔ لڑکا، لادلا۔

موت آنا۔ (۱-۱)۔ محاورہ (۱) پیشاب کی حاجت ہونا۔

موت آسنا۔ (۱-۱)۔ محاورہ (۱) پیشاب بند ہونا۔

موت باقر۔ (۱-۱)۔ ہذا (۱) پیشاب کرنے کا برتن۔

موت دینا۔ (۱-۱)۔ محاورہ (۱) پیشاب نکل جانا، ۳۔ ڈر جانا۔

موت سے نکال کر گڑھ میں ڈالنا۔ (۱-۱)۔ محاورہ (۱) ذلیل سے ذلیل تر کرنا۔

موت کا پتلو ہاتھ میں دینا۔ (۱-۱)۔ محاورہ (۱) جھلائی کے عزم ربانی کرنا۔ نیکی کے بے رہی بدی کرنا، کسی کی ساری خدمت خاک میں ملا دینا۔

موت کی دھار پر مارنا۔ (۱-۱)۔ محاورہ (۱) ذلیل اور سچ سمجھنا۔ خاطر میں ڈالنا کہ قدرت رحمت دے جانا۔

موت کے ریلے میں بہا دینا۔ (۱-۱)۔ محاورہ (۱) بے قدری سے ضائع کر دینا، ۲۔ عیاشی اور زنا کاری میں روپیہ برباد کر دینا۔

موت نکلنا۔ (۱-۱)۔ محاورہ (۱)۔ پیشاب خارج ہونا، ۲۔ بہت ڈرنا، بیحد خوف کھانا۔

موت۔ (۱-۱)۔ محاورہ (۱)۔ مرگہ۔ قضا، وفات۔ (۲)۔ انتقال، ۲۔ خرابی، شامت، ۳۔ تباہی، بربادی، ۴۔ نیستی، ناہودی، زوال۔

موت آجاتا۔ (۱-۱)۔ محاورہ (۱)۔ مر جانا۔ (۲)۔ انتقال کر جانا، ۲۔ رگھانا۔

موت آنا۔ (۱-۱)۔ محاورہ (۱)۔ مرنا۔ قضا آنا، ناگوار گزرنے، کام کا کرنا، شاق گزرنے، دم نکلنا، ۳۔ شامت آنا، خرابی آنا، آفت آنا۔

موت آنکھوں کے آگے پھرنا۔ (۱-۱)۔ محاورہ (۱)۔ مرنے کا دھیان پیشی نظر ہونا۔

موت اور گاہک کا کوئی اعتبار نہیں۔ (۱-۱)۔ محاورہ (۱)۔ موت کے لیے ہر وقت تیار رہنا چاہئے۔ معلوم نہیں کس وقت آجائے۔ یہی حال گاہک کا ہے۔ لہذا دکان دار کا بھی دکان پر ہر وقت موجود ہونا لازم ہے۔

موت مٹنی کہ جان کنڈنی۔ (۱-۱)۔ مثل (۱)۔ ازع کی تکلیف سے موت بہتر ہے۔ روز روز کی مصیبت سے ایک دفعہ کامر جانا ہی اچھا ہے۔

موت پتھر۔ (۱-۱)۔ (ع)۔ (۱)۔ وصیت نامہ۔

موت بڑھنا۔ (۱-۱)۔ محاورہ (۱)۔ دم نکلنا۔ دشوار معلوم ہونا۔ ناگوار گزرنے، گھرا جانا ڈرنا۔ خوف کھانا۔

موت چاہنا۔ (۱-۱)۔ محاورہ (۱)۔ مرنے کی آرزو کرنا۔ موت قبول کرنا۔ ۲۔ شامت چاہنا۔

موت سر پر کھڑی سے موت سر پر کھینتی ہے۔ (۱)۔ مثل (۱)۔ موت بالکل قریب ہے۔ مرنے کا وقت آگیا ہے۔

موت کا بازار تیز درگرم ہونا۔ (۱-۱)۔ محاورہ (۱)۔ موت سے موتیں واقع ہونا۔

موت کا پسینہ آنا۔ (۱-۱)۔ محاورہ (۱)۔ حالت نزع میں ٹھنڈا پسینہ آنا۔ موت کی تکلیف سے چہرے پر پسینہ آ جانا۔

موت کا پیام۔ (۱-۱)۔ ہذا (۱)۔ دیکھنے کا پیام۔ بلاوا۔ موت کا وقت۔

موت کا ڈھکا۔ (۱-۱)۔ ہذا (۱)۔ موت کے قریب آنکھوں سے ہانی ہینا۔

نیل دھلا۔

موت کا سامنا۔ (۱-۱)۔ ہذا (۱)۔ قضا کا در پر ہونا۔ ہلاکت کا مقابلہ۔

موت کا سر پر سوار ہونا۔ موت کا سر پر کھینا۔ (۱-۱)۔ محاورہ (۱)۔ موت قریب آنا۔ شامت آنا۔

موت کا طراخیر۔ (۱-۱)۔ ہذا (۱)۔ موت کا تھپڑ۔ موت کا صدمہ۔

موت کا فرشتہ۔ (۱-۱)۔ ہذا (۱)۔ ایک الموت۔ عزرائیل، ۲۔ جانی دشمن۔

موت کا کھانا۔ (۱-۱)۔ ہذا (۱)۔ کھانا جو میت کو جانے پر لوگوں کو کھلایا جاتا ہے۔

موت کا کھیرنا۔ (۱-۱)۔ محاورہ (۱)۔ مرنے کا سامان ہونا۔

موت کا مرقع۔ (۱-۱)۔ ہذا (۱)۔ دو بیماری جس میں مبتلا ہو کر آدمی مے۔

موت کا مہنگا۔ (۱-۱)۔ ہذا (۱)۔ قضا میں کسی کے عزیز اور پیہرہ و انعام پر سوچ کر مرنے کی توجیہ اور ایسے کاموں میں مبتلا ہے۔

موت کو پکڑا لو بخیر بر راضی ہوا۔ موت کو پکڑا لو زحمت قبول کی موت کو پکڑے تو تپ کو راضی ہو۔ (۱-۱)۔ مثل (۱)۔ جب آدمی بڑی مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے تو خود ہی مصیبت کو قیمت سمجھتا ہے۔ مشکل کام پر مجبور کریں گے تو آسنان کام پر راضی ہو جائے گا۔

موت کی کھڑی۔ (۱-۱)۔ مثل (۱)۔ مرنے کا وقت۔

موت کی کھڑی سر پر کھڑی۔ (۱-۱)۔ مثل (۱)۔ موت ہر وقت قریب ہے۔

موت کی پھلی آنا۔ (۱-۱)۔ محاورہ (۱)۔ جان کنڈنی کے وقت پھلیاں آنا۔

موت کے دن پورے کرنا۔ (۱-۱)۔ محاورہ (۱)۔ زندگی کا زمانہ بسر کرنا۔ بڑی تکلیف و مصیبت میں بسر ہونا سے مراد گزرنے۔

موت دکنے کھنا۔ (۱-۱)۔ ہذا (۱)۔ موت کے قریب۔

موت کے گھاٹ اٹھانا۔ (۱-۱)۔ محاورہ (۱)۔ مار ڈالنا۔ قتل کر دینا۔

موت کے فتنے میں جانا۔ (۱-۱)۔ محاورہ (۱)۔ خوبے میں پڑنا۔

موت لانی ہے۔ (۱-۱)۔ محاورہ (۱)۔ شامت سے لکنی ہے۔ موت نے بلا ہے۔

موت نظر آنا۔ (۱-۱)۔ محاورہ (۱)۔ مصیبت کے سامان دکھائی دینا۔ سخت مشکل نظر آنا۔

موت نے گھر دیکھ لیا ہے۔ موت گھر دیکھ گئی ہے۔ (۱)۔ مثل (۱)۔ مصیبت نے گھر کا راستہ دیکھ لیا ہے اب وہ بار بار آئے گی۔

موت ہونا۔ (۱-۱)۔ محاورہ (۱)۔ میت ہونا، ۲۔ خرابی ہونا۔ مصیبت ہونا۔

موت سے۔ (۱-۱)۔ محاورہ (۱)۔ آفت ہے۔ مصیبت ہے۔ چڑی دشواری ہے۔

موتیا۔ موتی۔ (۱-۱)۔ (ع)۔ (۱)۔ میت کی جمع۔ مروے۔

موتیاری۔ موتیہ۔ (۱-۱)۔ موتیوں کی جمع۔ (۱)۔ موتیوں کا عصا۔

موتیہ۔ (۱-۱)۔ (ع)۔ (۱)۔ میت، مجلس، مشورہ۔ کانفرنس۔

موتیوں۔ (۱-۱)۔ (ع)۔ امانت دار۔ جس کی سے مال میں نیابت دکرے۔

موتیہ۔ (۱-۱)۔ (ع)۔ (۱)۔ مصیبت کرنا، دھماکا، اظہار نفرت۔

موتیہ۔ (۱-۱)۔ (ع)۔ (۱)۔ ایک قسم کی گھاس جن کی بیجوں سے دانے نکلتے ہیں۔

موتیہ۔ (۱-۱)۔ (ع)۔ (۱)۔ ہذا (۱)۔ گھوڑے کا ایک مرض جس میں پاؤں کے غدود میں پانی بھر جاتا ہے اور جانور لنگ کرنے لگتا ہے۔ (۲)۔ (ع)۔ (ع)۔

موتی۔ (۱-۱)۔ (ع)۔ (۱)۔ ہذا (۱)۔ گھوڑے۔ مردارید۔ کوٹو۔ (۲)۔ (ع)۔ (ع)۔ صاف ستھان آب دار۔

موتی اگلنا - ۱۷۔ عمارہ موتی منسے باہر نکالنا ۲، تیریس کلائی کرنا۔
 موتی برسنا - ۱۷۔ عمارہ موتی لٹانا، گہری کرنا، اعلیٰ قسم کی گھنگو کرنا۔
 موتی بندھنا - ۱۷۔ عمارہ موتی میں سوراخ ہونا۔
 موتی ہاک - ۱۷۔ مذ) ایک قسم کی مٹھائی، جس پر گھنگیوں کے موتی سے
 انھیں سے ہوتے ہیں۔
 موتی پرونا - ۱۷۔ عمارہ موتیوں کی لڑی بنانا، دکھائیے، دل آویزیا میں کرنا، خوش
 گنتی، عمدہ مضمون لکھنا، دکھائیے، لگاتار دنا۔
 موتی ٹھنڈے ہونا - ۱۷۔ عمارہ موتی ٹوٹ جانا، ۲، صبح ہوتے وقت
 موتی ٹھنڈے معلوم ہونے لگتے ہیں۔ اس سے صبح ہونے کی علامت
 سمجھی جاتی ہے۔
 موتی جھرا - ۱۷۔ مذ) ایک بیماری جو عام طور پر بچوں کو ہوتی ہے۔ جس میں بیض پر ایک
 بار ایک سُرُخ دانے نکل آتے ہیں۔
 موتی جھیل - ۱۷۔ مذ) ایک خوبصورت تالاب کا نام جو لکھنؤ کے پیش
 باغ میں بنا ہوا ہے۔
 موتی چکنا - ۱۷۔ عمارہ موتی کھانا، لوگوں کا خیال ہے کہ ہنس موتی کھانا ہے
 ۲، دولت مند ہونا۔
 موتی چوڑ - ۱۷۔ صفت) چمکیلا۔ موتیوں کے جو سے کی طرح چمکدار، ۲، انھوں کی
 تقریب میں مشتمل ہے۔ چمکدار، آب دار، ۲، ایک قسم کی مٹھائی جس میں گل
 نکلیں، موتی ہیں، ۲، ایک قسم کے کابی کی طرح چمکدار نکلیں۔
 موتی چکر کے لڑو - ۱۷۔ مذ) ایک قسم کے لڑو جس کے دانے موتی کے برابر
 ہوتے ہیں۔
 موتی چوڑ کی زنجیر - ۱۷۔ مذ) ایک قسم کی خاص زنجیر۔
 موتی خندان - ۱۷۔ عمارہ موتی میں سوراخ کرنا، ۲، ازالہ بکارت کرنا۔
 موتی خالت میں رو لٹنا - ۱۷۔ عمارہ موتی چمکی کے بعد تھری کرنا۔
 موتی رو لٹنا - ۱۷۔ عمارہ موتیوں کو سمیٹ کر جمع کرنا، خوب روپیہ کمانا۔ دولت
 گھنٹیا، صفت کا مال اٹھانا۔
 موتی سی آبرو - ۱۷۔ مذ) وہ آبرو جو بے عیب ہو
 موتی سی آبرو پر پانی پھر جانا۔ موتی سی آبرو پر پانی پھرنا۔ ۱۷۔ عمارہ عزت
 دار ادا کرنے عزت ہوجانا۔
 موتی سے مانگ بھرنا - ۱۷۔ عمارہ مانگ کے بالوں میں موتی پرونا۔
 موتی کا ٹھنڈا ہونا - ۱۷۔ عمارہ موتی ٹوٹ جانے یا خراب ہوجانے کیلئے
 استعمال ہوتا ہے۔
 موتی کا چرنا - ۱۷۔ مذ) چلے ہوئے موتیوں کا سفوف جو ایروگ پان میں بیلو پڑنے
 کے استعمال کرتے ہیں۔
 موتی کوٹ کوٹ کر بھرنا - ۱۷۔ عمارہ نہایت خوبصورت بنانا۔
 موتی کوٹ کوٹ کر بھرے ہیں - ۱۷۔ عمارہ نہایت چمکدار اور
 خوبصورت، آنکھیں ہیں۔
 موتی کی آب - ۱۷۔ مذ) موتی کی چمک۔
 موتی کی سی آب اتر جانا - ۱۷۔ عمارہ عزت جاتی رہنا۔
 موتی کی سی آبرو - ۱۷۔ مذ) اعلیٰ درجہ کی آبرو۔

موتی کی سی آب ہے - ۱۷۔ عمارہ عزت بہت ہانگ تیز ہے۔
 موتی کی سیسی - ۱۷۔ مذ) وہ سیسی جس میں موتی پیدا ہوتا ہے۔
 موتی کی لڑی - ۱۷۔ مذ) موتی کی مالا۔ موتی کا ہار۔ سنگ مر مر، ۱۷۔ مذ) موتی،
 چمک دار موتیوں کی قطار۔
 موتی کے ساتھ تولنا - ۱۷۔ عمارہ موتی کے ہم وزن اور ہم پیمانہ بڑی
 قدر اور عزت کرنا۔
 موتی گر جانا - ۱۷۔ عمارہ موتی گرے ہوئے ہونا۔ موتی کا ٹوٹنا۔
 موتی محل - ۱۷۔ مذ) موتی کا بنا ہوا محل، ۲، ایک خوبصورت محل جلالی قلعہ دہلی
 میں سنگ مرمر اور سنگ مرمر کا بنا ہوا ہے۔
 موتی مسجد - ۱۷۔ مذ) سنگ مرمر کی خوبصورت مسجد۔ اس قسم کی مسجدیں لاہور
 آگرہ اور دہلی کے قلعوں میں ہیں۔
 موتیوں سے منہ بھرنا - ۱۷۔ عمارہ خوش گنتی یا خوش تیری کے افسانہ میں
 منہ موتیوں سے بھر دینا، یہ لکھے یا شاہی کا دستور تھا، ۲، مالا مال کر
 دینا، بخشش سے نہال کر دینا۔
 موتیوں کا جھالا - ۱۷۔ مذ) کان کا ایک ذریعہ جس میں کثرت سے موتی ہوتے ہیں
 موتیوں کا منہ برسنا - ۱۷۔ عمارہ موتیوں کی انراط۔
 موتیوں کا نوالہ - ۱۷۔ مذ) ترہل۔ نہایت عمدہ غذا۔
 موتیوں میں تولنا - ۱۷۔ عمارہ موتیوں کا ہم وزن کھانا۔ نہایت آبرو دار جانا۔
 موتیوں میں لڈنا - ۱۷۔ عمارہ موتیوں کا ذریعہ کثرت سے پہنچے ہونا۔
 موتیا - ۱۷۔ صفت) صفت) موتی کی مانند، ۲، ۱۷۔ مذ) صفت) ایسے
 کی ایک عمدہ قسم، ۲، ایک قسم کی چمک، جس میں بڑی شرح چمکیاں
 نکل آتی ہیں۔
 موتیا بند - ۱۷۔ مذ) آنکھ میں پانی اترانے کا مرض جس سے بینائی جاتی
 رہتی ہے۔
 موتیا دانست - ۱۷۔ مذ) نہایت خوش نام دانست۔
 موتی - ۱۷۔ صفت) موتی۔
 موتی - ۱۷۔ صفت) ایک عمدہ، ۲، گھڑی۔ پٹلی۔ بست۔ پتھی، ۲، پتھی
 جوڑے کا بڑا ڈول۔
 موٹلا (مورٹلا) - ۱۷۔ صفت) عظیم و عظیم فریہ۔ توند۔ تیار، ۲، گاڑھا۔ عین ۱۷۔ صفت)
 دو جے کا، سخت ناکار، قش، ۲، مہبوطی، ۲، جلی۔ جلی کا تھین۔
 موٹا ناچ - ۱۷۔ مذ) جوار۔ اجرا۔ مٹکا، دغیرہ۔ غریبوں کے کھانے کا
 سستا ناچ۔
 موٹا پن - ۱۷۔ مذ) فریبی۔ توندی۔
 موٹا تازہ - ۱۷۔ صفت) عظیم و عظیم تندرست توانا۔ تازہ۔
 موٹا جھوٹا - ۱۷۔ مذ) ادنیٰ قسم کا گھنٹیا۔
 موٹا جھوٹا ہوننا - ۱۷۔ مذ) فریبانہ لڑو کرنا۔
 موٹا دکھائی دینا - ۱۷۔ عمارہ کم نظر آنا۔ صاف دکھائی دینا۔
 موٹا سا طوفان - ۱۷۔ مذ) بڑا صیاری الزام۔ بہتان عظیم۔
 موٹا قلم - ۱۷۔ مذ) بلی خط۔ بڑے بڑے عزت، ۲، بلی قلم۔ وہ قلم جس سے موٹے
 اکرت لکھے جائیں۔

موج۔ (۵۔ ارمٹ) کچی۔ لچک۔ لچک رو، بے موقع ٹہلنے سے یکن کا جھڑ
مڑھانا، زیادہ تریاؤں کے لیے بولا جاتا ہے۔
موزخ آنا۔ (۱۔ محاورہ) ہاتھ پاؤں کا بے موقع پڑ جانا سے مڑ جانا۔
مُونجا۔ (مُونجا، ۵)۔ اندہ کیلے کا درخت (۲)۔ کوپیل۔
مُوچرَس۔ (موز۔ رَس) (۱۔ ارمٹ) سیمل کے درخت کا گوند جو بطور دوا
مستعمل ہے۔

مُوچری۔ (مُوچ۔ ری) (۵)۔ ارمٹ (۱)۔ جوتی۔ جوتا۔
مُوچن۔ (مُوچن، مُوچن، مُوچنی) (۵)۔ ارمٹ (۱)۔ موی کی بیوی۔
مُوچنیا۔ (مُوچنیا، ۱)۔ ارمٹ (۱)۔ بال لکھانے کا آلہ۔ بال چھننے کا اوزار۔
مُوچھ۔ مُوچھ۔ (۵)۔ ارمٹ (۱)۔ ہنٹوں کے اوپر کے بال۔ بُڑت۔
مُوچھ کانا۔ (۱۷)۔ ارمٹ (۱)۔ صاف کھرا۔ سچا آدمی۔ منہ پر کھڑے دالا رو، نہایت
مُوقب اور باسورج آدمی۔

مُوچھ مِرُوٹا۔ (۱۷)۔ ارمٹ (۱)۔ مویوں پر تادوینے والا۔ ہمدادی جتانے والا۔
شینی باز۔
مُوچھ مِرُوٹا روٹی ٹوٹا۔ (۱)۔ ارمٹ (۱)۔ اس موقع پر بکتے ہیں جب کوئی ممت کی روٹی
کھائے اور شینی بگھارتا پھرے۔

مُوچھ مَنڈ (مَنڈرا)۔ (۱۷)۔ ارمٹ (۱)۔ جس کی مویں مَنڈی، سنی ہوں۔
مُوچھوں پر تاد دینا۔ (۱۷)۔ محاورہ (۱)۔ مویوں کے بالوں کو بیل دینا، غزو سے
شخص کی حالت میں مویں مڑوٹنا، غزو۔
مُوچھوں سے جینکاریاں لگنا۔ (۱)۔ محاورہ (۱)۔ نہایت غصیل ہونا بہت
غضب ناک ہونا۔

مُوچھوں کا کوٹنا۔ (۱۷)۔ محاورہ (۱)۔ نیاز جو عورتیں لڑکوں کی سس بھینکنے پر
دلاتی ہیں۔
مُوچھیں اکھڑا دینا۔ (۱)۔ محاورہ (۱)۔ سزا کے طور پر مجرم کی مویں
چنارنا۔

مُوچھیں چڑھانا۔ (۱۷)۔ محاورہ (۱)۔ مویوں کو بیل دے کر اوپر کی طرف اٹھایا۔
مُوچھیں مَنڈرانا۔ (۱۷)۔ محاورہ (۱)۔ مویوں پر سزا پھرانا، اپنی غلٹی ماننا، ہر تسلیم
کرنا۔ جوش میں آکر کہتے ہیں کہ اگر ایسا نہ ہوا تو مویں مَنڈا دو لے گی۔
مُوچھیں نیچے کر لینا۔ (۱۷)۔ محاورہ (۱)۔ زبردست کے مقابلے میں سچی اور اگرتوں
چھوڑ دینا۔

مُوچھیا کرنا۔ (۱)۔ مویں چھوڑ کر، (۱)۔ مویں چھوڑ کر، (۱)۔ مویں چھوڑ کر، (۱)۔
بڑی بڑی مویں چھوڑ دالا۔
مُوچھیاں۔ (۱)۔ ارمٹ (۱)۔ جمع۔ مویں۔

مُوچھنڈر۔ (۱)۔ مویں مَنڈ (۱)۔ مویں بڑی مویوں والا، (۲)۔ چڑھا کر، (۳)۔
بدر وضع، زیادہ گو۔
مُوچھیل۔ (مُوچھیلین) (۵)۔ ارمٹ (۱)۔ دیکھے مُوچھنڈر۔

مُوچی۔ (مُوچی، ۵)۔ ارمٹ (۱)۔ چھوڑنے والا۔ مجرم دور جو تے بنانے والا۔
مُوچی کے مویں ہی رہے۔ (۱)۔ مثل (۱)۔ کوئی ترقی نہیں کی۔ جیسے تھے ویسے
مُوچی مویں رہے۔ سرکار کا زین ٹوٹے۔ (۱)۔ مثل (۱)۔ لڑے کوئی اور نقصان

کسی کا ہو۔

مُوچھڑ۔ (۱)۔ مویں چھوڑنے والا۔ مویں چھوڑنے والا۔ مویں چھوڑنے والا۔ مویں چھوڑنے والا۔

مُوچھڑا۔ (۱)۔ مویں چھوڑنے والا۔ مویں چھوڑنے والا۔ مویں چھوڑنے والا۔ مویں چھوڑنے والا۔

مُوچھڑا۔ (۱)۔ مویں چھوڑنے والا۔ مویں چھوڑنے والا۔ مویں چھوڑنے والا۔ مویں چھوڑنے والا۔

مُوچھڑا۔ (۱)۔ مویں چھوڑنے والا۔ مویں چھوڑنے والا۔ مویں چھوڑنے والا۔ مویں چھوڑنے والا۔

مُوچھڑا۔ (۱)۔ مویں چھوڑنے والا۔ مویں چھوڑنے والا۔ مویں چھوڑنے والا۔ مویں چھوڑنے والا۔

مُوچھڑا۔ (۱)۔ مویں چھوڑنے والا۔ مویں چھوڑنے والا۔ مویں چھوڑنے والا۔ مویں چھوڑنے والا۔

مُوچھڑا۔ (۱)۔ مویں چھوڑنے والا۔ مویں چھوڑنے والا۔ مویں چھوڑنے والا۔ مویں چھوڑنے والا۔

مُوچھڑا۔ (۱)۔ مویں چھوڑنے والا۔ مویں چھوڑنے والا۔ مویں چھوڑنے والا۔ مویں چھوڑنے والا۔

مُوچھڑا۔ (۱)۔ مویں چھوڑنے والا۔ مویں چھوڑنے والا۔ مویں چھوڑنے والا۔ مویں چھوڑنے والا۔

مُوچھڑا۔ (۱)۔ مویں چھوڑنے والا۔ مویں چھوڑنے والا۔ مویں چھوڑنے والا۔ مویں چھوڑنے والا۔

مُوچھڑا۔ (۱)۔ مویں چھوڑنے والا۔ مویں چھوڑنے والا۔ مویں چھوڑنے والا۔ مویں چھوڑنے والا۔

مُوچھڑا۔ (۱)۔ مویں چھوڑنے والا۔ مویں چھوڑنے والا۔ مویں چھوڑنے والا۔ مویں چھوڑنے والا۔

مُوچھڑا۔ (۱)۔ مویں چھوڑنے والا۔ مویں چھوڑنے والا۔ مویں چھوڑنے والا۔ مویں چھوڑنے والا۔

مُوچھڑا۔ (۱)۔ مویں چھوڑنے والا۔ مویں چھوڑنے والا۔ مویں چھوڑنے والا۔ مویں چھوڑنے والا۔

مُوچھڑا۔ (۱)۔ مویں چھوڑنے والا۔ مویں چھوڑنے والا۔ مویں چھوڑنے والا۔ مویں چھوڑنے والا۔

مُوچھڑا۔ (۱)۔ مویں چھوڑنے والا۔ مویں چھوڑنے والا۔ مویں چھوڑنے والا۔ مویں چھوڑنے والا۔

مُوچھڑا۔ (۱)۔ مویں چھوڑنے والا۔ مویں چھوڑنے والا۔ مویں چھوڑنے والا۔ مویں چھوڑنے والا۔

مُوچھڑا۔ (۱)۔ مویں چھوڑنے والا۔ مویں چھوڑنے والا۔ مویں چھوڑنے والا۔ مویں چھوڑنے والا۔

مُوچھڑا۔ (۱)۔ مویں چھوڑنے والا۔ مویں چھوڑنے والا۔ مویں چھوڑنے والا۔ مویں چھوڑنے والا۔

موس کے گھٹک کر دینا۔ (۱) محاورہ (لوٹ لوٹ کر فخر نہا دینا۔ دغا سے مال بے کر محتاج کر دینا۔

موسل۔ (موسل، ۱۰۵) مذ (ب) دیکھیے موسر۔

موشلا۔ (موس، ۱۰۵) مذ (ب) موسل کی تصنیف (۲) چھری تچی (۳) جریب۔ عصا (۴) پچکاری کی ڈنڈی (۵) جڑ۔

موسلا دھار۔ (۵) صفت (۱) دہ منہ جو ایک زور سے برے۔

موسلا دھار رستا۔ (پڑنا)۔ (۱) محاورہ (بہت زور سے بارش ہونا چھوٹا مینہ برنا۔

موسلاں سوڑھول بجانا۔ (ق) مص (بہت زیادہ خوشی منانا۔

موسلوں ڈھول بجانا۔ (۱) محاورہ (بیکار پکار کے کسی بات کی تشبیہ کرتے پھرتا۔ زور و شور سے اعلان کرنا۔

موسلی۔ (موس، لی، ۱۰۵) صفت (۱) جڑ۔

موسم۔ (موسم، ۱۰۵) مذ (ب) وقت۔ سما۔ سماں۔ موقع۔ دن۔ زمانہ۔

موسم بہار۔ (۱) مذ (ب) بہار کا زمانہ۔ چھاگن۔ ماہِ چ کا مینہ۔

موسم آفتال۔ (۱) صفت (۱) مذ (ب) بہار کا موسم۔ خلیف (۲) پیری۔ جڑھا پاہ۔

موسم گل۔ (۱) صفت (۱) بہار کا موسم۔

موسم پوزا۔ (۱) محاورہ (کسی فصل کا پلنے وقت مینہ پر سال کے اندر ہوتا۔

موسمی۔ (موسمی، ۱۰۵) صفت (۱) موسم کا۔ وقت کا۔ موقع کا۔

موسمیاتی۔ (موسمیاتی، ۱۰۵) صفت (۱) مذ (ب) علم جس کا تعلق موسموں کی معلومات سے ہو (۲) (Meteorology)

موسنا۔ (موسنا، ۱۰۵) صفت (۱) لوٹ لینا۔ ٹھگ لینا۔ وغیرہ سے رو بہرہ کھانا۔

موسوم۔ (موسوم، ۱۰۵) مذ (ب) نام رکھا گیا (۲) مخاطب۔ عقبت (۳) نشان دیا گیا۔ نقش کیا گیا۔

موسوی۔ (موسوی، ۱۰۵) صفت (۱) حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بہرہ بہودی۔ موسانی۔

موسی۔ (موسی، ۱۰۵) مذ (ب) مال کی بہن۔ خال۔

موسلی۔ (موسلی، ۱۰۵) مذ (ب) ایک مشہور غیر کائنات نام جن پر قرابت نازل ہوئی۔ بہودی جن کے بہرہ ہیں۔

موسیرا۔ (موسیرا، ۱۰۵) مذ (ب) خال زاد بھائی۔ مال کی بہن کا بیٹا۔

موسیقار۔ (موسیقی، ۱۰۵) مذ (ب) ایک خیالی پند جس کی بابت کہا جاتا ہے کہ اس کی چوٹی میں بہت سے سوراخ ہوتے ہیں جن میں سے طرح طرح کی راگتیاں اور چنگاریاں نکلتی ہیں۔ نقض بھی اسی کو کہتے ہیں (۲) ایک بابا (۳) ہانسنے والا۔ گویا۔

موسیقی۔ (موسیقی، ۱۰۵) صفت (۱) مٹانے بجانے کا علم۔

موسیرا۔ (موسیرا، ۱۰۵) مذ (ب) ایک فرانسیسی (Monsieur) سے بنا ہوا کتاب سطر موسی۔ (۱) صفت (۱) مذ (ب) ہوا۔

موش۔ (۱) صفت (۱) مذ (ب) ہوا۔

موشی۔ (موشی، ۱۰۵) صفت (۱) مذ (ب) ہوا۔

موشی۔ (موشی، ۱۰۵) صفت (۱) مذ (ب) ہوا۔

موشک۔ (موشک، ۱۰۵) صفت (۱) مذ (ب) ہوا۔

موش۔ (موش، ۱۰۵) صفت (۱) مذ (ب) ہوا۔

موش۔ (موش، ۱۰۵) صفت (۱) مذ (ب) ہوا۔

موش۔ (موش، ۱۰۵) صفت (۱) مذ (ب) ہوا۔

موش۔ (موش، ۱۰۵) صفت (۱) مذ (ب) ہوا۔

موش۔ (موش، ۱۰۵) صفت (۱) مذ (ب) ہوا۔

موش۔ (موش، ۱۰۵) صفت (۱) مذ (ب) ہوا۔

موش۔ (موش، ۱۰۵) صفت (۱) مذ (ب) ہوا۔

موش۔ (موش، ۱۰۵) صفت (۱) مذ (ب) ہوا۔

موش۔ (موش، ۱۰۵) صفت (۱) مذ (ب) ہوا۔

موش۔ (موش، ۱۰۵) صفت (۱) مذ (ب) ہوا۔

موش۔ (موش، ۱۰۵) صفت (۱) مذ (ب) ہوا۔

موش۔ (موش، ۱۰۵) صفت (۱) مذ (ب) ہوا۔

موش۔ (موش، ۱۰۵) صفت (۱) مذ (ب) ہوا۔

موش۔ (موش، ۱۰۵) صفت (۱) مذ (ب) ہوا۔

موش۔ (موش، ۱۰۵) صفت (۱) مذ (ب) ہوا۔

موش۔ (موش، ۱۰۵) صفت (۱) مذ (ب) ہوا۔

موش۔ (موش، ۱۰۵) صفت (۱) مذ (ب) ہوا۔

موش۔ (موش، ۱۰۵) صفت (۱) مذ (ب) ہوا۔

موش۔ (موش، ۱۰۵) صفت (۱) مذ (ب) ہوا۔

موش۔ (موش، ۱۰۵) صفت (۱) مذ (ب) ہوا۔

موش۔ (موش، ۱۰۵) صفت (۱) مذ (ب) ہوا۔

موش۔ (موش، ۱۰۵) صفت (۱) مذ (ب) ہوا۔

موش۔ (موش، ۱۰۵) صفت (۱) مذ (ب) ہوا۔

موم کا ہوجانا - ۱۷۔ عمارت (۱) نہایت نازک ہوجانا۔
 موم کمرنا - ۱۸۔ عمارت (۲) نرم کرنا، ملائم کرنا، ہانپنا کرنا۔ گھیلنا، لگانا، سنگلی دود
 کرنا، نرم دل بنانا، موم کا طبع کرنا، اپنی بات منوانا۔
 موم کی پھلی - ۱۹۔ عمارت (۳) پھلی سے لڑکے موم سے بنا کر پانی میں تراتے ہیں۔
 موم کی مریم - ۲۰۔ عمارت (۴) بہت نازک عورت۔
 موم کی ناک - ۲۱۔ عمارت (۵) غیر متصل مزاج۔ وہ شخص جسے جس طرف جا ہو کر لو جو ہر
 ایک کے کہتے ہیں آجاتے۔
 مومین - ۲۲۔ مومین (۱) ایمان لانے والا۔ ایماندار و مسلمان۔
 جولا ہار - ۲۳۔ شیعہ، اہل تشیع، اہم، اردو کے مشہور شاعر حکیم مومن خاں
 کا تخلص بھی مومین۔
 مومینت - ۲۴۔ موم۔ ہیئت، (۱) ایمان مومن ہونا۔ مطیع و فرمانبردار ہونا۔
 مومین - ۲۵۔ موم، زمین، (۲) ایمان مومن کی وجہ۔ ایمان لانے والے۔
 مومجی - ۲۶۔ مومجی، (۳) عمارت (۶) موم سے منسوب، موم کا، موم کا بنا ہوا۔
 مومجیٹ - ۲۷۔ عمارت (۷) ایک قسم کی نہایت ملائم پھینٹ۔
 مومجی شمع - ۲۸۔ عمارت (۸) موم کی بنی ہوئی شمع۔ موم جی۔
 مومجی مومجی - ۲۹۔ (۱) ایک قسم کا جھوٹا مومجی جو موم کی لاگ سے بنا لیا جاتا ہے
 مومجی - ۳۰۔ مومنا، (۲) عمارت (۹) اشارہ کیا گیا، ایما کیا گیا۔
 مومجی الیہ - ۳۱۔ عمارت (۱۰) وہ شخص جس کی طرف اشارہ کیا جائے۔ مشار الیہ۔
 مومیا - ۳۲۔ موم، (۳) عمارت (۱۱) مسالا گی اور سوکھی ہوئی لاش (۱۲) وہ مسالا جسے
 لگا کر لاش کو محفوظ کرتے ہیں۔
 مومینائی - ۳۳۔ موم، (۴) عمارت (۱۲) ایک دوا جو موم کی طرح نرم ہوتی ہے اور
 زخم و مزب کے لیے بہت مفید ہے۔
 مومیالی نکالنا - ۳۴۔ عمارت (۱۳) سخت سخت لینا، قدم کو کھل کا تیاں تھا کہ انسان کے
 دماغ میں سوراخ کر کے اٹھا دکھا دیتے ہیں۔ نیچے آگ کھلا کر تیز رک دیتے ہیں۔
 سوراخ سے مومیالی پھینکتی رہتی ہے۔ اس سے یہ عمارت بن گیا۔
 مومون - ۳۵۔ (۱) عمارت (۱۴) منہ۔
 مومون - ۳۶۔ عمارت (۱۵) چھپ، خاموشی۔
 مومون برت - ۳۷۔ عمارت (۱۶) جب کاروزہ، خاموش رہنے کا عہد۔
 مومون - ۳۸۔ عمارت (۱۷) ایک قسم کا بڑا گھڑا۔
 مومونا - ۳۹۔ مومنا، (۲) عمارت (۱۸) بڑا برتن گھڑا، مشکا، لنگرا، سانپ رکھنے کا پٹارا۔
 مومونا - ۴۰۔ مومنا، (۳) موم، (۴) مومنا، فوت ہونا۔
 مومونچا - ۴۱۔ مومون، چنا، (۵) موم، مومنا، بند کرنا۔
 موموننا - ۴۲۔ مومون، (۶) عمارت (۱۹) دیکھو موم چھپ۔
 مومونٹ - ۴۳۔ موم، (۷) عمارت (۲۰) عمارت (۲۱) عورت، مادین، نرکی خند۔
 مومونج - ۴۴۔ عمارت (۲۲) ایک قسم کی گھاس جس کی رسی جٹی جاتی ہے۔
 مومون کا بان - ۴۵۔ (۱) عمارت (۲۳) مومجی کی رسی، ایک ڈور یا تین سے چار پائی
 مومونج کی رسی - ۴۶۔ عمارت (۲۴) مومجی کی رسی، مومجی کی رسی۔
 مومونچہ - ۴۷۔ (۱) عمارت (۲۵) اور گھڑے اور گھڑے جھنڈ وغیرہ کا ایک مومجی جس میں اکٹھے کیے
 ایک خدو ہوجاتا ہے اور پھوٹ کر سیاہ مومجی بننے لگتا ہے۔

مومک - ۴۸۔ عمارت (۲۶) درد دینے والا۔ اگم دینے والا۔
 موملی - ۴۹۔ (۱) مذق، دلوانہ، مڑھی، بد مزاج
 موملنا - ۵۰۔ موملنا، (۲) موم، (۳) موم کے درخت میں پھیل آنا، پورا آنا۔
 موملور - ۵۱۔ موملور، (۳) عمارت (۲۷) پیدائش کا دن، (۴) بیٹا، لڑکا، لیسر
 موم، وہ مجلس جس میں حضور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش
 کا بیان کیا جائے۔
 موملور خوان - ۵۲۔ عمارت (۲۸) موملور شریف سے وہ شخص جو پیغمبر اسلام
 صلعم کے حالات سناتے۔
 موملور شریف - ۵۳۔ عمارت (۲۹) موملور شریف، جناب پیغمبر اسلام کی پیدائش کا بیان، (۳۰)
 وہ مجلس جس میں رسول خدا کی پیدائش کا ذکر کیا جائے۔
 موملور مسعود - ۵۴۔ عمارت (۳۱) خوش نصیب بچہ۔
 موملوری - ۵۵۔ موملوری، (۳۲) عمارت (۳۰) دیکھو موملور خوان۔
 موملوان - ۵۶۔ موملوان، (۳۳) عمارت (۳۱) موملوی کی بیوی، (۳۴) مسائل اسلامی
 کی عالمہ۔
 موملوی - ۵۷۔ موملوی، (۳۴) عمارت (۳۲) شرح اسلامی کے احکام جاننے والا۔ عالم دین
 فقیر، (۳۵) پکا دین دار۔ پانچ شریعت، (۳۶) معلم، مدرس، (۳۷) علم کا
 لقب موملی سے بنایا جاتا ہے۔
 موملوی گری - ۵۸۔ عمارت (۳۵) چھانے کا پیشہ۔
 موملویت - ۵۹۔ موملوی، (۳۶) عمارت (۳۳) موملوی پنہا۔
 موملور - ۶۰۔ موملور، (۳۷) عمارت (۳۴) فلیفٹ، شیدار، دلوانہ، جمنون۔
 موملی - ۶۱۔ موملی، (۳۸) عمارت (۳۵) ایک ترکاری۔
 مومل اپنے ہی چوں بھاری - ۶۲۔ (۱) مومل، اپنا ہی گزارہ مشکل ہے۔
 موملوں کو کیا دیں گے۔
 موملی کے چور کو موملی - ۶۳۔ مومل (۳۹) عمارت (۳۵) تصور پر سخت سزا۔
 موملی کا جرنی طرح - ۶۴۔ عمارت (۳۶) نہایت بے قدری سے۔
 موملیہ - ۶۵۔ موملے، (۴۰) عمارت (۳۶) موملوں زاد۔
 موملیہ (جھلی) - ۶۶۔ (۱) عمارت (۳۷) موملوں زاد جھلی۔
 موملیہ بہن - ۶۷۔ عمارت (۴۱) موملی بہن۔
 موم - ۶۸۔ (۱) عمارت (۳۸) اور نرم ملاہ جسے شہد کی کھیاں شہد کے ساتھ جمع
 کرتی ہیں، (۲) شہد، (۳) موم۔
 موم جتی - ۶۹۔ عمارت (۴۰) موم سے بنائی جلتے۔ موم جتی۔
 موم کو نہیں ہو کر پھیل جاوے گا - ۷۰۔ (۱) موم، (۲) موم، (۳) موم اور بے ہمت نر
 خدا سے کام میں مر جاوے گا۔
 موم جامد - ۷۱۔ (۱) عمارت (۴۱) موم کا روغن کیا گیا ہو۔
 موم دل - ۷۲۔ عمارت (۴۲) موم دل، نرم دل، ترس کھانے والا۔
 موم روغن - ۷۳۔ (۱) عمارت (۴۲) موم کا روغن جو کسی خوشبودار تیل میں موم کو گھلا کر
 تیار کیا جاتا ہے اور پھینٹے ہوئے منہ پر لگا جاتا ہے۔
 موم کا - ۷۴۔ (۱) عمارت (۴۳) موم کا بنا ہوا، (۲) نہایت نرم و نازک، موم کی
 موم کا کھلوا - ۷۵۔ (۱) عمارت (۴۴) ناپائیدار چیز۔

۱۲۱ پیاری - پیار دلانے والی (۳۰) درباری مدبری - دلخیزی (۳۱) ماہر
 جادوگری -
 مہو بوب - رنو - بوب (۱) - اند (۲) مرحمت کیا گیا رو یا گیا بخشا گیا - نہایت کیا گیا -
 مہو بوب البیر - (۱) - اند (۲) جس کے نام پر بید کیا گیا ہو -
 مہو بوب سوم - رنو - بوم (۱) - اند (۲) وہم کیا گیا - وہی - قیاسی - فرضی -
 مہو بوبی - رنو - بوبی (۱) - اند (۲) صفت ادبی خیالی - تصوری - فرضی -
 مہو بوبے - (۱) جن - بھجے - بھجے - بھجے -
 مہو بے اور نہ بھجے - تصور - (۱) - مثل - نہ بھجے تیرے بغیر اور نہ بھجے تیرے
 بغیر چین آنا ہے -

مہو بوب - رنو - بوب (۱) - اند (۲) آئند کرنے والا - مدروینے والا - قوت دینے والا -
 مدوکار - مہولان - حملتی - جمع - مہو بوب -
 مہو بوب - رنو - بوب (۱) - اند (۲) آئند کیا گیا مدرو یا گیا حمایت کیا گیا -
 مہو بوب - رنو - بوب (۱) - اند (۲) بڑے سوتے ہوئے انگور - منقار -
 مہو بوب منق - (۱) - اند (۲) نئی نکال کر صاف کیے ہوئے بڑے انگور -
 مہو بوبی - رنو - بوبی (۱) - اند (۲) دیکھے ہوئے -
 مہو بوبی آوارہ ہونا - (۱) - اند (۲) مہو بوبی کا اپنا ٹھکانہ چھوڑ کر ادر ادر
 چلا جانا -
 مہو بوبی خانہ - (۱) - اند (۲) وہ جگہ جہاں ڈھور ڈھنگ رکھے جائیں -

م - ۵

مہو بوبی - رنو - بوبی (۱) - اند (۲) امری ہوئی - مردہ (۲) بد نصیب - اجڑی -
 مہو بوبی - رنو - بوبی (۱) - اند (۲) اس وقت کہتے ہیں جب کوئی بڑی چیز خدا
 کے نام دی جائے -
 مہو بوبی جوان - رنو - بوبی (۱) - اند (۲) کمال وجود (۲) نہایت عزیز -
 مہو بوبی کیوں کہ سانس نہ آیا - (۱) - اند (۲) انسان کی زندگی سانس چلنے تک ہے -
 جہاں سانس بند ہوئی آدمی رخصت ہو -
 مہو بوبی مانی کوئی سنگائی - (۱) - اند (۲) جہاں مال مری سانسہ تعلقات اور رشتے ختم
 ہو گئے - بزرگی ہی کے دم سے جوڑوں میں تعلقات قائم رہتے ہیں -
 مہو بوبی مہی - (۱) - اند (۲) میت - نفس لاش (۲) مراد - مردہ -
 مہو بوبی کی نشانی - (۱) - اند (۲) مرے ہوئے آدمی کی یادگار - مرے ہوئے
 عزیز کی اولاد -
 مہو بوبے - (۱) - اند (۲) صفت ہوا کی جمع - مرے ہوئے (۲) بد نصیب - کجنت
 خاندن خراب (۲) مر گئے - فنا ہو گئے -
 مہو بوبے بیل کی بڑی بڑی آنکھیں - (۱) - اند (۲) اس موقع پر بولتے ہیں جب کوئی کسی
 مرے ہوئے کی زیادہ تعریف کرے -
 مہو بوبے پر تین دن بھامی - (۱) - اند (۲) مسلمانوں کے عقیدے میں مرے سے
 تین دن تک اعمال کی بخشش ہوتی رہتی ہے -
 مہو بوبے پر سوڑے - (۱) - اند (۲) مثل - آنت زورہ پر آنت - مصیبت کے ماسے ہوئے پر
 اور مصیبت مہو بوبے کے بعد بھی مزے کے قابل - مرے کو مایک شاہ ہمار
 مہو بوبے جان ہار - (۱) - اند (۲) بھاری اور تنفر کے موقع پر کہتے ہیں -
 مہو بوبے جیتے - (۱) - اند (۲) مردہ اور زندہ -
 مہو بوبے جیتے آگھاڑو لٹا - (۱) - اند (۲) مرے ہوؤں اور زندوں کے
 عیب نکالنا -
 مہو بوبے قہر سے جیتی ملی بھلی - (۱) - اند (۲) زور اور مرے سے کم زور زندہ بہتر ہے -
 مہو بوبے کا کوئی نام نہیں جیتے کا سب کوئی - (۱) - اند (۲) زندہ کی سب خوشامد
 کرتے ہیں مرے کا کوئی نام بھی نہیں لیتا -
 مہو بوبے کی قبر اور جیتے کا گھر - (۱) - اند (۲) مرے کو قبر میں اور زندوں کو اپنے گھر میں
 آرام دینا ہے - بر نفس اپنے ہی مقام پر خوش رہتا ہے -
 مہو بوبے - رنو - بوبے (۱) - اند (۲) دیکھے ہوئے -
 مہو بوبیا - رنو - بوبیا (۱) - اند (۲) سوت کا چھوٹا ٹیٹھا - سوت کی آٹی -
 مہو بوبیا سا پیٹ - (۱) - اند (۲) نہایت نرم اور نازک پیٹ -

مہر - (۱) - اند (۲) ماہ کا تخفیف (۱) - اند (۲) چاند - قمر - چند رات - مہینا - مرکب دیکھے
 ماہ کے ماتحت -
 مہ نورمی فشانہ رنگ ہانگ می زند - (۱) - اند (۲) چاند نور برساتا
 ہے اور کتا بھونکتا ہے - حاسد اور بدخواہ غل چماتے ہیں مگر کام کرنے
 والے اپنے کام میں لگے رہتے ہیں -
 مہ نورمی شود ماہ تمام آہستہ آہستہ - (۱) - اند (۲) چاند آہستہ آہستہ پورا چاند
 ہو جاتا ہے - کمال رفتہ رفتہ حاصل ہوتا ہے -
 مہر - (۱) - اند (۲) صفت - بڑا - کمال - بزرگ - سردار -
 مہما - رنو - مہما (۱) - اند (۲) بڑا - بزرگ - اعلیٰ - معزز (۲) اکلان - غلطیم (۳)
 خاندان - شریف -
 مہما آدیت - (۱) - اند (۲) نہایت بوقوت -
 مہما بونمن - (۱) - اند (۲) بڑا بونمن - مرادوں کی کراہی - کم کرنے والا -
 مہما بلی - (۱) - اند (۲) صفت - بڑا طاقت ور - نہایت زبردست - شہ زور -
 مہما بھارت - (۱) - اند (۲) بڑی لڑائی - جنگ - غلطیم (۲) وہ لڑائی جو کورڈوں اور پانڈوں
 کے درمیان کود کر شہر کے میدان میں اٹھارہ روز تک جاری رہی
 (۱) - اند (۲) وہ کتاب جس میں کورڈوں اور پانڈوں کی لڑائی کا حال لکھا ہے -
 مہما بھاک - (۱) - اند (۲) بڑا خوش نصیب - بلند اقبال (۲) خوش قسمتی -
 مہما بھیر - (۱) - اند (۲) بڑا بہادر - ہونمان کا خطاب -
 مہما بپا - (۱) - اند (۲) بڑا بھاری گناہ -
 مہما بانی - (۱) - اند (۲) بہت بڑا بھنگا رننا سوتو فاجر -
 مہما بکشش - (۱) - اند (۲) بڑا آدمی - ہمتا - مقدس - معصوم (۲) مجازاً (۲) شہر -
 عیار بد معاشرہ -
 مہما پر شاہ - (۱) - اند (۲) تیرک - بھوک - بگن ناخ کا پر شاہ -
 مہما پرے - (۱) - اند (۲) قیامت - دنیا کے فنا ہونے کا دن - بھندوں کے عقیدے
 کے مطابق (۲) - اند (۲) اب نہیں کروڑ برس کے بعد ہوتا ہے -
 مہما پوٹی - (۱) - اند (۲) آٹو - ٹھنڈا - روم -
 مہما پورا - (۱) - اند (۲) سب کتوں میں چالاک - پانچوں عیب والا -

۱. ہمتی - (۱۲۔ شرافت، اخلاص) سب سے بڑا۔ بزرگ۔ سردار۔ سرگرد۔ آقا۔ مالک
 امیر (۲۲)۔ آواز خاکوب۔ سبکی۔ حلال (۲۲)۔ چھار۔ موچی۔ رم۔ ہمتیاری۔
 ہمتیاری - (۱۲۔ ہمت، شرافت، اخلاص) حلال خوری۔ سبکی (۲۲)۔ چھار۔
 ۱۳۔ ہمتیاری۔

۲. ہمتی - (۱۲۔ شرافت، اخلاص) سب سے بڑا۔ بزرگ۔ سردار۔ سرگرد۔ آقا۔ مالک
 ہمتیاری - (۱۲۔ ہمت، شرافت، اخلاص) حلال خوری۔ سبکی (۲۲)۔ چھار۔
 ۱۳۔ ہمتیاری۔

۳. ہمتی - (۱۲۔ شرافت، اخلاص) سب سے بڑا۔ بزرگ۔ سردار۔ سرگرد۔ آقا۔ مالک
 ہمتیاری - (۱۲۔ ہمت، شرافت، اخلاص) حلال خوری۔ سبکی (۲۲)۔ چھار۔
 ۱۳۔ ہمتیاری۔

۴. ہمتی - (۱۲۔ شرافت، اخلاص) سب سے بڑا۔ بزرگ۔ سردار۔ سرگرد۔ آقا۔ مالک
 ہمتیاری - (۱۲۔ ہمت، شرافت، اخلاص) حلال خوری۔ سبکی (۲۲)۔ چھار۔
 ۱۳۔ ہمتیاری۔

۵. ہمتی - (۱۲۔ شرافت، اخلاص) سب سے بڑا۔ بزرگ۔ سردار۔ سرگرد۔ آقا۔ مالک
 ہمتیاری - (۱۲۔ ہمت، شرافت، اخلاص) حلال خوری۔ سبکی (۲۲)۔ چھار۔
 ۱۳۔ ہمتیاری۔

۶. ہمتی - (۱۲۔ شرافت، اخلاص) سب سے بڑا۔ بزرگ۔ سردار۔ سرگرد۔ آقا۔ مالک
 ہمتیاری - (۱۲۔ ہمت، شرافت، اخلاص) حلال خوری۔ سبکی (۲۲)۔ چھار۔
 ۱۳۔ ہمتیاری۔

۷. ہمتی - (۱۲۔ شرافت، اخلاص) سب سے بڑا۔ بزرگ۔ سردار۔ سرگرد۔ آقا۔ مالک
 ہمتیاری - (۱۲۔ ہمت، شرافت، اخلاص) حلال خوری۔ سبکی (۲۲)۔ چھار۔
 ۱۳۔ ہمتیاری۔

۸. ہمتی - (۱۲۔ شرافت، اخلاص) سب سے بڑا۔ بزرگ۔ سردار۔ سرگرد۔ آقا۔ مالک
 ہمتیاری - (۱۲۔ ہمت، شرافت، اخلاص) حلال خوری۔ سبکی (۲۲)۔ چھار۔
 ۱۳۔ ہمتیاری۔

۹. ہمتی - (۱۲۔ شرافت، اخلاص) سب سے بڑا۔ بزرگ۔ سردار۔ سرگرد۔ آقا۔ مالک
 ہمتیاری - (۱۲۔ ہمت، شرافت، اخلاص) حلال خوری۔ سبکی (۲۲)۔ چھار۔
 ۱۳۔ ہمتیاری۔

۱۰. ہمتی - (۱۲۔ شرافت، اخلاص) سب سے بڑا۔ بزرگ۔ سردار۔ سرگرد۔ آقا۔ مالک
 ہمتیاری - (۱۲۔ ہمت، شرافت، اخلاص) حلال خوری۔ سبکی (۲۲)۔ چھار۔
 ۱۳۔ ہمتیاری۔

۱. مہربان (دکرنا) کر دینا - (۱۲۔ محاورہ) مہربان کرنا۔ توجہ دلانا۔ نرم دل کر دینا۔
 مہربان مٹن - (۱۲۔ محاورہ) میرے کرم فرما۔
 مہربان ہو جانا - (۱۲۔ محاورہ) دانا، نرم دل ہونا۔ ترس کھانا (۲۲)۔ خوش ہونا
 ماضی ہونا۔

۲. مہربانی - (۱۲۔ محاورہ) عنایت۔ شفقت۔ نوازش۔ کپار (۲۲)۔ توجہ۔ انکساف
 دھیان۔ خیال۔
 مہربانی سے پیش آنا - (۱۲۔ محاورہ) اطلاع سے پیش آنا۔ اچھا برتاؤ کرنا۔
 عنایت فرمانا۔

۳. مہربانی نامہ - (۱۲۔ محاورہ) نامہ انکساف نامہ۔ دوستا نہ خط۔
 مہربانی (طلعت) - (۱۲۔ محاورہ) حسین خوب صورت۔ سورج کی
 شکل والا۔ معشوق۔
 مہربان کرنا - (۱۲۔ محاورہ) مہربان کرنا۔ فضل کرنا۔
 مہربان نظر - (۱۲۔ محاورہ) عنایت اور مہربانی کی نگاہ۔
 مہربان ہونا - (۱۲۔ محاورہ) کمال مہربانی کرنے والا۔
 مہربان ہونا - (۱۲۔ محاورہ) ایک قسم کی گھاٹ جس کی جڑ انسانی جہ سے مشابہ ہوتی ہے۔
 (۲۲)۔ شوق کھی کھی کھی۔

۴. مہربانی - (۱۲۔ محاورہ) مہربان کرنا۔ فضل کرنا۔
 مہربان نظر - (۱۲۔ محاورہ) عنایت اور مہربانی کی نگاہ۔
 مہربان ہونا - (۱۲۔ محاورہ) کمال مہربانی کرنے والا۔
 مہربان ہونا - (۱۲۔ محاورہ) ایک قسم کی گھاٹ جس کی جڑ انسانی جہ سے مشابہ ہوتی ہے۔
 (۲۲)۔ شوق کھی کھی کھی۔

۵. مہربانی - (۱۲۔ محاورہ) مہربان کرنا۔ فضل کرنا۔
 مہربان نظر - (۱۲۔ محاورہ) عنایت اور مہربانی کی نگاہ۔
 مہربان ہونا - (۱۲۔ محاورہ) کمال مہربانی کرنے والا۔
 مہربان ہونا - (۱۲۔ محاورہ) ایک قسم کی گھاٹ جس کی جڑ انسانی جہ سے مشابہ ہوتی ہے۔
 (۲۲)۔ شوق کھی کھی کھی۔

۶. مہربانی - (۱۲۔ محاورہ) مہربان کرنا۔ فضل کرنا۔
 مہربان نظر - (۱۲۔ محاورہ) عنایت اور مہربانی کی نگاہ۔
 مہربان ہونا - (۱۲۔ محاورہ) کمال مہربانی کرنے والا۔
 مہربان ہونا - (۱۲۔ محاورہ) ایک قسم کی گھاٹ جس کی جڑ انسانی جہ سے مشابہ ہوتی ہے۔
 (۲۲)۔ شوق کھی کھی کھی۔

۷. مہربانی - (۱۲۔ محاورہ) مہربان کرنا۔ فضل کرنا۔
 مہربان نظر - (۱۲۔ محاورہ) عنایت اور مہربانی کی نگاہ۔
 مہربان ہونا - (۱۲۔ محاورہ) کمال مہربانی کرنے والا۔
 مہربان ہونا - (۱۲۔ محاورہ) ایک قسم کی گھاٹ جس کی جڑ انسانی جہ سے مشابہ ہوتی ہے۔
 (۲۲)۔ شوق کھی کھی کھی۔

۸. مہربانی - (۱۲۔ محاورہ) مہربان کرنا۔ فضل کرنا۔
 مہربان نظر - (۱۲۔ محاورہ) عنایت اور مہربانی کی نگاہ۔
 مہربان ہونا - (۱۲۔ محاورہ) کمال مہربانی کرنے والا۔
 مہربان ہونا - (۱۲۔ محاورہ) ایک قسم کی گھاٹ جس کی جڑ انسانی جہ سے مشابہ ہوتی ہے۔
 (۲۲)۔ شوق کھی کھی کھی۔

۹. مہربانی - (۱۲۔ محاورہ) مہربان کرنا۔ فضل کرنا۔
 مہربان نظر - (۱۲۔ محاورہ) عنایت اور مہربانی کی نگاہ۔
 مہربان ہونا - (۱۲۔ محاورہ) کمال مہربانی کرنے والا۔
 مہربان ہونا - (۱۲۔ محاورہ) ایک قسم کی گھاٹ جس کی جڑ انسانی جہ سے مشابہ ہوتی ہے۔
 (۲۲)۔ شوق کھی کھی کھی۔

۱۰. مہربانی - (۱۲۔ محاورہ) مہربان کرنا۔ فضل کرنا۔
 مہربان نظر - (۱۲۔ محاورہ) عنایت اور مہربانی کی نگاہ۔
 مہربان ہونا - (۱۲۔ محاورہ) کمال مہربانی کرنے والا۔
 مہربان ہونا - (۱۲۔ محاورہ) ایک قسم کی گھاٹ جس کی جڑ انسانی جہ سے مشابہ ہوتی ہے۔
 (۲۲)۔ شوق کھی کھی کھی۔

مے گول - ۱۶ - مٹ (مٹ) شراب کے رنگ کا - مٹخ - لال ۔
 مٹے ناب - ۱۷ - مٹ (مٹ) شراب ۔
 مٹے وصل مٹے وصلت - ۱۸ - مٹ (مٹ) شراب سے مباشرت سے ۔
 رمیا - ۱۹ - مٹ (مٹ) حجت ۔
 رمیا - ۲۰ - مٹ (مٹ) اماں کی تصغیر - امانہ والدہ ۔
 رمیا باوا امر گئے تاہمی دہریا کر گئے - ۲۱ - مٹ (مٹ) ہے سوچے سمجھے بیٹی کو ہمزاج
 کے ساتھ بیاہ دینا ۔

رمیا - ۲۲ - مٹ (مٹ) مات - بھگت ۔

رمیا - ۲۳ - مٹ (مٹ) مان - ۱۷ - مٹ (مٹ) چچ - وسط ۔ درمیان ۲۴ - مٹ (مٹ) کرہ ۲۵ - مٹ (مٹ) نیام توار
 وغیرہ رکھنے کا خانہ ۔

رمیا - ۲۶ - مٹ (مٹ) نصف - متوسطہ - درمیانی ٹیل کا آدمی ۔

رمیا - ۲۷ - مٹ (مٹ) اوہ لستر جس کے ایسے اللہ اتر کے بیچ میں ردی
 کی تو ہو ۔

رمیا - ۲۸ - مٹ (مٹ) دو دریاؤں کے بیچ کی زمین - دو آہ ۔
 رمیا سے باہر ہونا - (نکلنا) - ۲۹ - مٹ (مٹ) کوہ کا نام سے نکلنا ۳۰ - مٹ (مٹ) مٹ
 سبب آگے سے باہر ہونا آپے میں ذرہ بنا ۔

رمیا - ۳۱ - مٹ (مٹ) رلیٹا - ۳۲ - مٹ (مٹ) مرنے مارنے پر تیار ہوجانا ۔
 توارمیاں سے اہر کر لینا ۔

رمیا - ۳۳ - مٹ (مٹ) توارمیاں - ۳۴ - مٹ (مٹ) توارمیاں کے خلاف میں کرنا ۳۵ - مٹ (مٹ) کرنا
 سے باز آنا ۔

رمیا - ۳۶ - مٹ (مٹ) امیران - ۳۷ - مٹ (مٹ) امیران کا متحف ، آقا ، وال ، دارت
 خزانہ ، مالک ، سرکار ، حضور ، حاکم ، سردار ، صاحبزادہ ، پشاور ، خانہ
 شہر ، خیم ، جم ، جناب ، جناب عالی ، بار ، دوست ، بھائی ، آقا ، مسلم ۔
 مدرس - پڑھانے والا ، شہزادہ ، صاحب عالم - امیر زادہ ، کنور ، ہر پارٹی
 راجاؤں کے خاندان کے لوگ ۔

رمیا - ۳۸ - مٹ (مٹ) امیران کا متحف ، آقا ، وال ، دارت ۔

رمیا - ۳۹ - مٹ (مٹ) امیران کا متحف ، آقا ، وال ، دارت ۔

رمیا - ۴۰ - مٹ (مٹ) امیران کا متحف ، آقا ، وال ، دارت ۔

رمیا - ۴۱ - مٹ (مٹ) امیران کا متحف ، آقا ، وال ، دارت ۔

رمیا - ۴۲ - مٹ (مٹ) امیران کا متحف ، آقا ، وال ، دارت ۔

رمیا - ۴۳ - مٹ (مٹ) امیران کا متحف ، آقا ، وال ، دارت ۔

رمیا - ۴۴ - مٹ (مٹ) امیران کا متحف ، آقا ، وال ، دارت ۔

رمیا - ۴۵ - مٹ (مٹ) امیران کا متحف ، آقا ، وال ، دارت ۔

رمیا - ۴۶ - مٹ (مٹ) امیران کا متحف ، آقا ، وال ، دارت ۔

رمیا - ۴۷ - مٹ (مٹ) امیران کا متحف ، آقا ، وال ، دارت ۔

رمیا - ۴۸ - مٹ (مٹ) امیران کا متحف ، آقا ، وال ، دارت ۔

مٹا بہرہ - ۲ - مٹ (مٹ) مٹ کے دن مل جانا ، معمول کے دن گزر جانا ۔
 مٹینا دار - ۳ - مٹ (مٹ) مٹ کے دن مل جانا ، معمول کے دن گزر جانا ۔

مٹینے سے ہونا - ۴ - مٹ (مٹ) مٹ کے دن مل جانا ، معمول کے دن گزر جانا ۔

مٹینے کے مٹینے - ۵ - مٹ (مٹ) مٹ کے دن مل جانا ، معمول کے دن گزر جانا ۔

مٹینندی - ۶ - مٹ (مٹ) مٹ کے دن مل جانا ، معمول کے دن گزر جانا ۔

۶۰۴

مٹی - ۱ - مٹ (مٹ) مٹ کے دن مل جانا ، معمول کے دن گزر جانا ۔
 مٹی - ۲ - مٹ (مٹ) مٹ کے دن مل جانا ، معمول کے دن گزر جانا ۔

۴۰۵

مٹے - ۱ - مٹ (مٹ) مٹ کے دن مل جانا ، معمول کے دن گزر جانا ۔

مٹے آتشیں - ۲ - مٹ (مٹ) مٹ کے دن مل جانا ، معمول کے دن گزر جانا ۔

مٹے آتشیں - ۳ - مٹ (مٹ) مٹ کے دن مل جانا ، معمول کے دن گزر جانا ۔

مٹے آتشیں - ۴ - مٹ (مٹ) مٹ کے دن مل جانا ، معمول کے دن گزر جانا ۔

مٹے آتشیں - ۵ - مٹ (مٹ) مٹ کے دن مل جانا ، معمول کے دن گزر جانا ۔

مٹے آتشیں - ۶ - مٹ (مٹ) مٹ کے دن مل جانا ، معمول کے دن گزر جانا ۔

مٹے آتشیں - ۷ - مٹ (مٹ) مٹ کے دن مل جانا ، معمول کے دن گزر جانا ۔

مٹے آتشیں - ۸ - مٹ (مٹ) مٹ کے دن مل جانا ، معمول کے دن گزر جانا ۔

مٹے آتشیں - ۹ - مٹ (مٹ) مٹ کے دن مل جانا ، معمول کے دن گزر جانا ۔

مٹے آتشیں - ۱۰ - مٹ (مٹ) مٹ کے دن مل جانا ، معمول کے دن گزر جانا ۔

مٹے آتشیں - ۱۱ - مٹ (مٹ) مٹ کے دن مل جانا ، معمول کے دن گزر جانا ۔

مٹے آتشیں - ۱۲ - مٹ (مٹ) مٹ کے دن مل جانا ، معمول کے دن گزر جانا ۔

مٹے آتشیں - ۱۳ - مٹ (مٹ) مٹ کے دن مل جانا ، معمول کے دن گزر جانا ۔

مٹے آتشیں - ۱۴ - مٹ (مٹ) مٹ کے دن مل جانا ، معمول کے دن گزر جانا ۔

مٹے آتشیں - ۱۵ - مٹ (مٹ) مٹ کے دن مل جانا ، معمول کے دن گزر جانا ۔

مٹے آتشیں - ۱۶ - مٹ (مٹ) مٹ کے دن مل جانا ، معمول کے دن گزر جانا ۔

مٹے آتشیں - ۱۷ - مٹ (مٹ) مٹ کے دن مل جانا ، معمول کے دن گزر جانا ۔

میاں لکناؤ بیوی اُڑاؤ۔ 17۔ مثل) شوہر کمکا کر لاتا ہے اور بیوی فضول خرچی میں ختم کردیتی ہے۔

میاں کی جوتی میاں کا سر۔ 17۔ مثل) آدمی اپنے ہاتھوں کے لیے سے لایا جا رہے۔

میاں کی داروغھی واہ ہی واہ میں گئی۔ 17۔ مثل) بے فائدہ اور بے نتیجہ خرچ کے موطن پر لہرتے ہیں۔

میاں کے میاں گئے۔ بُرے بُرے سینے آئے۔ 17۔ مثل) نقصان پر نقصان، موصیبت پر موصیبت آئی۔

میاں گھر نہیں، بیوی کو ڈر نہیں۔ 17۔ مثل) 11۔ تنگ دناموس کیونکر سلامت رہے، 12۔ مالک کی غیر موجودگی میں بے اعتدال ہاتھوں کے طرز عمل پر لہرتے ہیں۔

میاں گئے روئے بیوی نہیں پٹ روند۔ 17۔ مثل) خاندان گھر سے باہر جائیں تو بیوی بھی چل پڑتی ہے، اُس عورت کے لیے کہتے ہیں جو شوہر کے باہر جاتے ہی گھر سے نکل کھڑی ہوتی ہے۔

میاں مٹھو۔ 17۔ مثل) 12۔ مٹی مٹی باتیں کرنا والا پیار سے طوطہ کہتے ہیں، 13۔ جانور سیدھا ملدا بھولا، جیالا، سادہ لوح، 13۔ اپنی تعریف آپ کرنے والا۔

میاں مٹھو بنا دینا (رمانا)۔ 17۔ عمارت، طوطے کی طرح ڈنادینا۔ بے سبب الفاظ اڑ کر دینا۔

میاں مٹھو پڑھو تو پڑھو نہیں توہ نجر اٹھائی کرو۔ 17۔ مثل) کام کرنا ہے تو کرو نہیں تو رخصت ہو۔

میاں موٹھو ہیں۔ 17۔ مثل) بیوقوف ہیں ماحن ہیں۔

میاں ناک کاٹنے کو پھیریں۔ بیوی کہے مجھے نیٹھو کھڑو او۔ 17۔ مثل) ایک کا کچھ مطلب ہو دوسرا کچھ سے ایک دوسرے سے بیزار ہونا اور وہ اس سے اپنی خواہشات پوری کرنے کا طلب گار ہو۔

میاں نا۔ 17۔ مثل) 13۔ اڑنا، اڑنا، ڈولنا، بیس۔ پانسی۔ سگھ پال، گاڑی کی کٹی۔

میاں نہ۔ 17۔ مثل) 13۔ معنی) بچھ۔ وسط۔ متوسط درجے کا۔ جملاً، 14۔ مثل) درمیان

میاں نہ رو۔ 17۔ مثل) معنی) چھ۔ وسط۔ متوسط چال چلنے والا۔ وہ جو قول و فعل میں نہ زیادتی اختیار کیسے نہ کی۔

میاں نہ روی۔ 17۔ مثل) معنی) اوسط درجہ کی روش۔ کفایت شناری۔

میاں نہ قدر۔ 17۔ مثل) معنی) متوسط قدر۔ زیادہ کم۔

میاں نہ گیران۔ معنی) اعتدال پسند۔ افراد و تقریب سے دور رہنے والا۔

میاں نہ روم، یا نہ، (اڑنا، معنی) دونوں پانچوں کے چمک کا پڑنا۔

میاں نہ روم، یا نہ، (اڑنا، معنی) دونوں پانچوں کے چمک کا پڑنا۔

میاں نہ کون کون کھڑے گا۔ 17۔ مثل) زبردست پر ناتوازیوں کا زور نہیں چلتا۔

میاں نہ وقت۔ 17۔ مثل) معنی) بے وقت، بے وقت، بے وقت۔

میاں (Map) لگانا۔ 17۔ مثل) ملک یا زمین کا نقشہ۔

مہمت۔ (ق۔ اند) دوست۔

مہمت۔ (ق۔ اند) دوست۔

مہمت۔ (ق۔ اند) دوست۔

مہمت۔ (ق۔ اند) دوست۔

مہمت۔ (ق۔ اند) دوست۔

مہمت۔ (ق۔ اند) دوست۔

مہمت۔ (ق۔ اند) دوست۔

مہمت۔ (ق۔ اند) دوست۔

مہمت۔ (ق۔ اند) دوست۔

مہمت۔ (ق۔ اند) دوست۔

مہمت۔ (ق۔ اند) دوست۔

مہمت۔ (ق۔ اند) دوست۔

مہمت۔ (ق۔ اند) دوست۔

مہمت۔ (ق۔ اند) دوست۔

مہمت۔ (ق۔ اند) دوست۔

مہمت۔ (ق۔ اند) دوست۔

مہمت۔ (ق۔ اند) دوست۔

مہمت۔ (ق۔ اند) دوست۔

مہمت۔ (ق۔ اند) دوست۔

مہمت۔ (ق۔ اند) دوست۔

مہمت۔ (ق۔ اند) دوست۔

مہمت۔ (ق۔ اند) دوست۔

میٹھا بولنا - ۱۱- محاورہ شیریں کلامی سے لگنگو کرنا۔ نرمی سے بات چیت کرنا۔
غش اخلاقی سے پیش آنا۔

میٹھا بانی - ۱۱- مذ (۱) آب شیریں (۲) لیمونڈ۔

میٹھا توٹیا - ۱۱- مذ (۱) گھوڑے کی ہلکی جال جو بہت تیز ہو اور نہ بہت سست۔

میٹھا تھپا کو - ۱۱- مذ (۱) پینے کا تمباکو جس میں گڑ زیادہ ڈالتے ہیں۔

میٹھا تیل - ۱۱- مذ (۱) آٹھوں کا تیل۔

میٹھا تیلیا - ۱۱- مذ (۱) ایک اور اسی کی بڑ بڑی ہوتی ہے۔ سنگھیا۔

میٹھا چھک - ۱۱- مذ (۱) میٹھی میٹھی باتیں کر کے چھکنے والا۔ جھوٹا دوست۔

غوشلدی دوست -

میٹھا درد - ۱۱- مذ (۱) ہلکا ہلکا درد۔ دھیما درد۔

میٹھا زہر - ۱۱- مذ (۱) ایک قسم کا زہر۔

میٹھا منہ - ۱۱- مذ (۱) تلوار یا چھری کی کندھار (۲) کسی میٹھی چیز کا منہ میں ڈالنا

(۳) چھکنی کی رسم۔

میٹھا منہ کرنا - ۱۱- محاورہ (۱) میٹھا کی گھانا کرنا (۲) شکر اور دیر نارس، رشوت دینا۔

میٹھا منہ کرنا - ۱۱- محاورہ (۱) میٹھا کی گھانا کرنا (۲) نسبت کرنا۔ سنگینی کرنا۔

میٹھا میٹھا - ۱۱- صفت (۱) کم کم۔ تھوڑا تھوڑا۔ ہلکا ہلکا۔

میٹھا میٹھا سپ گڑ اور گڑوا تھو - ۱۱- مثل (۱) اچھی اچھی چیز سے لینا اور

بڑی سے پرہیز کرنا۔

میٹھے سے مرے تو زہر کیوں دے - ۱۱- مثل (۱) اگر نرمی سے کام نکل سکتا

ہو تو سختی کیوں کی جائے۔

میٹھے کھنے کو جی چاہتا ہے کھٹے میٹھے کو جی چاہتا ہے - ۱۱- محاورہ (۱) اجامت کی

رہیت ہونا۔ اہمتری کی خواہش ہونا۔

میٹھے کے لالچ میں جھوٹا کھاتے ہیں - ۱۱- مثل (۱) لالچ کی طبع میں سخت کلامی

اور سختی برداشت کرتے ہیں۔

میٹھے کے واسطے نہ سلوٹے کے واسطے - ۱۱- مثل (۱) بڑی کسی طمعے۔

میٹھے میں سلوٹا ملانا - ۱۱- محاورہ (۱) بدمزگی پیدا کرنا۔

میٹھے والے - ۱۱- مذ (۱) وہ تنگ جو مسافروں کو میٹھا تیلیا کھلا کر مار

ڈالتے تھے۔

میٹھی - ۱۱- صفت (۱) میٹھا کی نیت۔ شیریں۔

میٹھی آنکھوں سے دیکھنا - ۱۱- محاورہ (۱) محبت بھری نگاہ سے دیکھنا۔

میٹھی بات - ۱۱- صفت (۱) ملائم بات۔ نرم بات مدحیہ لگنگو۔

میٹھی باتیں کرنا - ۱۱- محاورہ (۱) نرمی سے بولنا۔ مزے کی باتیں کرنا۔

میٹھی بازو - ۱۱- صفت (۱) کم تیز اور کندھار۔ موٹی دھار۔

میٹھی بولی - ۱۱- صفت (۱) شیریں زبانی۔ ملائم اور نرم لگنگو۔

میٹھی جڑی (گلابی) - ۱۱- صفت (۱) میٹھی۔ اصل الشوش۔

میٹھی تون - ۱۱- صفت (۱) بیماری جیاری نظر۔

میٹھی چھری - ۱۱- صفت (۱) جو شخص بہ ظاہر دوست اور بہ باطن دشمن ہو۔ دوست

نار دھن۔ ہار آستین۔

میٹھی چھری زہر کی بھٹی - ۱۱- مثل (۱) ظاہر میں نرم کلام۔ دل میں دشمنی۔

میٹھی عید - ۱۱- مذ (۱) عید الفطر۔

میٹھی گالی - ۱۱- صفت (۱) وہ گالی جو تلخ نہ گندے۔ مشوق کی گالی۔

میٹھی مار - ۱۱- صفت (۱) باطنی تکلیف۔ دہ مار میں سے نشان ظاہر نہ ہو گیت مار۔

میٹھی مار دینا - ۱۱- محاورہ (۱) اندرونی طور سے مارنا۔ اس طرح مارنا کہ چوٹ

ظاہر نہ ہو۔

میٹھی مراد - ۱۱- صفت (۱) اچھی مراد۔

میٹھی میٹھی باتیں کرنا - ۱۱- محاورہ (۱) دیکھے میٹھی باتیں کرنا۔

میٹھی میٹھی بھوار - ۱۱- صفت (۱) ہلکی ہلکی بھوار۔

میٹھی نظر (نگاہ) - ۱۱- صفت (۱) محبت کی نظر۔ عاشقانہ نظر۔

میٹھی نظریں - ۱۱- صفت (۱) میٹھی میٹھی نظریں۔ (۱) نگاہیں۔ (۲) صفت (۱) محبت والی

کی نگاہیں (۲) عاشقانہ نگاہیں۔

میٹھی نیند - ۱۱- صفت (۱) خواب راحت۔ خواب خوش۔ ٹھوکی نیند۔

میٹھی - ۱۱- صفت (۱) شوق، (۲) ع۔ (۳) قول و قرار۔ وعدہ دیکھاں۔ معاہدہ۔ جینا۔ موافقت۔

میجر - (Major) (۱) نئے۔ بڑے۔ (۲) ایک فوجی عہدہ جو کپتان سے اوپر

اور لٹیننٹ کرنل کے نیچے ہوتا ہے۔

میجسٹی - (Majesty) (۱) نئے۔ (۲) جتن۔ (۳) ایک (۱) شان و شوکت۔ جاہ و

جلال۔ ویدیر۔ رعب داب۔ کردفر۔ منصب شاہی۔

میجک - (Magic) (۱) نئے۔ (۲) جت، (۳) ایک صفت (۱) علم تسویر۔ جادو۔ ٹونا۔ جواہروں۔

میجک لیٹرن - (۱) ایک (۱) صفت (۱) وہ لائٹن جس سے اندھیرے میں چلتی چوٹی

تصویریں دکھائی جاتی ہیں۔

میجنا - میجنا - ریٹھی - ریٹھی - ریٹھی - ریٹھی - ریٹھی - ریٹھی - ریٹھی - ریٹھی -

ریٹھی - ریٹھی - ریٹھی - ریٹھی - ریٹھی - ریٹھی - ریٹھی - ریٹھی -

میجیشن - (Magician) (۱) صفت (۱) جت، (۲) ایک (۱) جادوگر۔ ساحر۔ انفلوگ۔

میچ (Match) (۱) ایک (۱) صفت (۱) مقابلہ جریلت (۲) تمیل۔ جواب (۳) ہمزہ۔ ہمزہ پلا دم،

مقابلہ۔ مقابلہ بزرگ (۵) جڑا دو لٹا دھن۔

میچ بکس - ۱۱- مذ (۱) دیاسلائی کی ٹی بی۔

میچ کرنا رکھیلنا - ۱۱- محاورہ (۱) کسی عمل میں کسی کے ساتھ مقابلہ کرنا۔

میچنا - ۱۱- صفت (۱) اچھے بند کرنا۔

میخ - ۱۱- صفت (۱) کیل۔ پیگ۔ (۲) کھوٹی کھوٹا۔ جوب۔

میخ اکھاڑنا - ۱۱- محاورہ (۱) کھوٹا اکھاڑنا۔ سواروں کا ایک کڑب جس میں وہ گھوڑا اور کتا

بوسے گڑی میخ کو اکھاڑے جاتے ہیں۔

میخ ٹھونکنا - ۱۱- محاورہ (۱) کیل بڑا کرنا۔ دباؤ۔ مغلوب کرنا۔ (۲) ہاتھ پاؤں میں کیل ٹھونکنا۔

صلیب پر چڑھانا۔ ایسی سزا میں پہلے زمانے میں دی جاتی تھیں۔

میخ جو - ۱۱- صفت (۱) میخ ٹھونکے ہوئے۔ موکری۔

میخ دی میخ نہیں دیا - ۱۱- مثل (۱) اس موقع پر بولنے میں جوب کوئی شخص بڑے واسطے

سے ہدایت قیمتی چیزیں دے دے لیکن لینے والا کوئی تقیر سی شے نہ ملنے پر

شکایت کرے۔

میخ مارنا - ۱۱- محاورہ (۱) کیل ٹھونکنا۔ کھوٹی گارڈار۔ مغلوب کرنا۔ بہرانا۔ شکست دینا۔

بھانجی مارنا۔ رعب۔ نقب لگانا۔

میدان - ۱۱- صفت (۱) دان برف۔ (۲) صفت (۱) وسیع سطح زمین۔ چٹیل زمین کا۔ بھار۔

زمین (۲) دائرہ لڑائی۔ مقابلہ۔ جنگ (۳) جوہریوں کی اصطلاح میں جواہر

ہتھم ملیخ، رخاں سامان - بکا دل -

میر شکار - (ت۔ ۱۔ مذ) وہ ملازم شاہی جسے شکاری جانوروں کی نگرانی سپرد ہو۔

میر عرب - (ت۔ ۱۔ مذ) مراد حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔

میر عرض - (ت۔ ۱۔ مذ) بادشاہی ملازم جو لوگوں کو عرض و معروض پیش کرے۔ عرض نیکی۔

میر عمارت - (ت۔ ۱۔ مذ) ہتھم تعمیرات - انجینئر۔

میر فرس - (ت۔ ۱۔ مذ) وہ فرس جو پتھر کو دہلنے کے لیے چاروں کولن پر رکھے جلتے ہیں۔

میر قنار کارواں - (ت۔ ۱۔ مذ) قافلے کا سردار۔

میر کلام - (ت۔ ۱۔ مذ) ہدایت اچھا مترز - جادو بیان خطیب۔

میر مجلس و محفل - (ت۔ ۱۔ مذ) صدر جلسہ - صدر نشین جزم - پرسیڈنٹ۔

میر ٹکڑے - (ت۔ ۱۔ مذ) صیغے یا سٹے کا انفر۔

میر ٹکڑے - ٹکڑے کا چھوڑی - کسی کو بے کار سردار۔

میر مشاعرہ - (ت۔ ۱۔ مذ) محفل مشاعرہ کا صدر۔

میر مطبخ - (ت۔ ۱۔ مذ) باورچی خانے کا ہتھم۔

میر مینزل - (ت۔ ۱۔ مذ) وہ شخص جو لشکر کے گئے آگے چل کر پڑاؤ کا انتظام کرتا ہے۔

میر منس - (ت۔ ۱۔ مذ) نازک مزاج۔

میر منشی - (ت۔ ۱۔ مذ) سر شرف دار - پیشکار اعلیٰ - صدر دفتر۔

میر میدان - (ت۔ ۱۔ مذ) چھارو - دلاور - شہانہ۔

میرا - (ت۔ ۱۔ مذ) زمین کا وہ قسم جس میں چھنی مٹی اور ریت ملی ہوتی ہے۔

میرا - (ت۔ ۱۔ مذ) اپنا ذات کو خدا کا۔

میرا باب سخی تھا پر بسے جو سے آنا دکھتا تھا - (۱۔ مذ) سخی غصے کی بات

بولتے ہیں آپ کو کسی قابل ہو کر جو لوگوں کی باتوں پر گھنڈ کرنا چھوے۔

میرا بس چلے تو تجھے کیا چھا جاؤں - (۱۔ مذ) سنت منہ کے حالت میں کہتے ہیں۔

میرا بھائی ہے - (۱۔ مذ) اپنا عزیز ہے۔ میرا پیارا ہے۔

میرا لیل منطلق نہیں پڑھا ہوا - (۱۔ مذ) ایسے سادے آدمی اپنے کام سے غرض

رکھتے ہیں۔ فضول جھگڑوں میں نہیں ہستے۔

میرا تیرا - (۱۔ مذ) کل میرا اہمیت اور بیگانگی ظاہر کرنے کے موقع پر کہتے ہیں۔

میرا جی - (دل - خوشی) - (۱۔ مذ) کسی کا تجھ پر کیا زور ہے جو میری خوشی

کودہ کرنا ہوں۔

میرا حلوہ کھائے - میرا ماتم کرے - میرا مردہ دیکھے - میرا مردہ دیکھے

(تنت قسم) اگر میرا مانے تو مجھے مرانا دیکھے۔

میرا ذمہ - میں اس بات کا ذمہ دار ہوں۔

میرا اسلام ہے - (۱۔ مذ) عاودہ میں باذآ - مجھے منکر نہیں - خدا بچائے۔

میرا شہر - (پہاڑ - سورما) - (۱۔ مذ) کبھی دل بڑھانے کے لیے اور

کبھی طنز کہتے ہیں۔

میرا کام آپ کا نام - میرا مطلب مل ہو جائیگا اور آپ کی ناموری ہوگی۔

میرا کیا گیا - (۱۔ مذ) عذرہ) میرا کیا نقصان ہوا - ہمارا کیا بھگلا۔

میرا کیا نہ لیا گیا - (۱۔ مذ) میں نے میرے کام کا رکھا دینے کا کام کا۔

میرا ہونے سے - (۱۔ مذ) تم (میرا خون ہلانے کے قتل کرے۔

میرا ماتھا - (۱۔ مذ) جھپٹھا تھا - (۱۔ مذ) عاودہ) مجھے اسی وقت اندیشہ ہوا تھا - میں پہلے ہی تازگی تھا۔

میرا مردہ اب بھی تیرے زندے پر بھاری ہے - (۱۔ مذ) میں مجبوری میں بھی تجھ سے بہتر کام کر سکتا ہوں۔

میرا امانت نہیں - (۱۔ مذ) عاودہ) میرا حوصلہ نہیں - مجھے طاقت نہیں - میری زبان میں اتنی طاقت نہیں۔

میرا ٹوبہ - (۱۔ مذ) مقولہ) میں بیزار ہوں - میں باذآ۔

میرا جوتی سے - (۱۔ مذ) مقولہ) میری بلا سے۔

میرا طرف سے - میری جانب سے، میرے نزدیک۔

میرے آگے نام نہ لو - (۱۔ مذ) روزمرہ) میں اتنا متنفر ہوں کہ نام بھی نہیں سنا جاتا۔

میرے لوت کی لمبی لمبی ہاتھیں - (۱۔ مذ) خن) ہتھکڑے کو کہنا میرا ہاتھ میرے پھول کرے - (۱۔ مذ) تاج خن) دیکھے میرا مردہ دیکھے۔

میرے دونوں بیٹے - (۱۔ مذ) روزمرہ) میرا ہر طرف فائدہ ہے (۲۔ مذ) دونوں عزیز ہیں۔

میرے ساتھ ضرر ہے - (۱۔ مذ) روزمرہ) ہمیشہ میرے خلاف کام کرتا ہے۔

میرے سامنے آسکتے ہیں؟ مجھے آنکھیں ملا سکتے ہیں - (۱۔ مذ) روزمرہ) کیا طاقت ہے؟ کیا مجال ہے جو میرے رو برو ہوں۔

میرے لال کے سوسویا - (۱۔ مذ) حلا ہے اور ہنسیار - (۱۔ مذ) خن) اس شخص کے متعلق کہتے ہیں جس کی دوستی معمولی لوگوں کے ساتھ ہو۔

میرے لڈر لال کی اٹھی ریت - (۱۔ مذ) سادوں ماس اٹھاؤ میں بھیت - (۱۔ مذ) اٹھنے سے واسے کی بات کہتے ہیں جو بے موقع کام کرے۔

میرے منہ سے - (۱۔ مذ) تاج خن) میری خاطر سے میرے فعل سے - میری وجہ سے۔

میرے اسی سے آگ لانی نام رکھا - (۱۔ مذ) خن) اس شخص کی بابت سوال کرتے ہیں جو کسی کام لیکر کوئی چیز حاصل کرے اور پھر اسی سے چھپائے۔

میرے سے سورا جاکے نہیں اور راہ میرا منگتا - (۱۔ مذ) خن) آجی خڑے کی نسبت کہتے ہیں جو اپنی کپڑے پر گھنڈ کرے۔

میرا ت - (۱۔ مذ) سات، (۱۔ مذ) مت اور ت - (۱۔ مذ) جہاں مادہ وغیرہ جو مرے واسے کسی طرف سے تھاروں کو ملے۔

میرا تین - (۱۔ مذ) سات، (۱۔ مذ) مت لگانے والی ڈومنی - مطر - میرا ت کی ہوی۔

میرا ت - (۱۔ مذ) سات، (۱۔ مذ) مت لگانے والی ڈومنی - مطر - میرا ت کی ہوی۔

میرا ت - (۱۔ مذ) سات، (۱۔ مذ) مت لگانے والی ڈومنی - مطر - میرا ت کی ہوی۔

میرا ت - (۱۔ مذ) سات، (۱۔ مذ) مت لگانے والی ڈومنی - مطر - میرا ت کی ہوی۔

میرا ت - (۱۔ مذ) سات، (۱۔ مذ) مت لگانے والی ڈومنی - مطر - میرا ت کی ہوی۔

میرا ت - (۱۔ مذ) سات، (۱۔ مذ) مت لگانے والی ڈومنی - مطر - میرا ت کی ہوی۔

میرا ت - (۱۔ مذ) سات، (۱۔ مذ) مت لگانے والی ڈومنی - مطر - میرا ت کی ہوی۔

میرا ت - (۱۔ مذ) سات، (۱۔ مذ) مت لگانے والی ڈومنی - مطر - میرا ت کی ہوی۔

میرا ت - (۱۔ مذ) سات، (۱۔ مذ) مت لگانے والی ڈومنی - مطر - میرا ت کی ہوی۔

میرا ت - (۱۔ مذ) سات، (۱۔ مذ) مت لگانے والی ڈومنی - مطر - میرا ت کی ہوی۔

میرا ت - (۱۔ مذ) سات، (۱۔ مذ) مت لگانے والی ڈومنی - مطر - میرا ت کی ہوی۔

میرا ت - (۱۔ مذ) سات، (۱۔ مذ) مت لگانے والی ڈومنی - مطر - میرا ت کی ہوی۔

میرزا شرف - منصف، شہزادوں جیسی خوب والہ۔ نازک مزاج۔ شام مزاج کا آدمی تنگ مزاج۔

میرزائی - (میرزاہی) (ف۔ ۱۰۔ منٹ) شہزادگی۔ بزرگی۔ شرافت۔ عالی خانہ دانی۔ پنجاب، ۲، ٹیکسٹ، نازک مزاجی۔ ناز۔ گھنڈ، ۳، گری، صدی واسکت۔ نیم جامہ (۴) مرزا غلام احمد قادیانی کو ماننے والا۔

میرزائی - دسے، روتی، (۱) منٹ، (۲) خوام ناز۔

میرزائی - (۱) ری، (۲) آر، (۳) اسپ، (۴) پروتیت لیمانے والا جو سب میں اول رہے۔

میرزائی - (۱) ری، (۲) آر، (۳) منٹ، (۴) میرائی تائیت۔

میرزائی آنکھوں سے دیکھنا - (۱) مثل، (۲) اس نغیر خصوصیت سے دیکھو جو

مجھ کو حاصل ہے۔ اس موقع پر کہتے ہیں جب کوئی کسی ایسی چیز میں تیز نہ کر سکے۔

میرزائی مٹی اور مٹی سے میناؤں - (۱) مثل، (۲) میرا مطیع اور مجھ سے

مناہ کرے۔

میرزائی مٹی کھائے - (۱) قسم، (۲) دیکھو میرا جلوہ کھائے۔

میرزائی پاپوش سے - (۱) پیراز سے۔ (۲) بھولی سے، (۳) روزمرہ مجھے

کھیرنا نہیں۔

میرزائی توہیر - (۱) قسم، (۲) میں باز آیا۔ میں بیزار ہوں۔

میرزائی جان لٹی - (۱) روزمرہ، (۲) میں مرا۔ میری زندگی چلی۔ میری جان پر آجی مجھے

نہایت تکلیف ہے۔

میرزائی جوئی سے - (۱) روزمرہ، (۲) میری بلا سے۔

میرزائی جوئی میرے ہی سر - (۱) مثل، (۲) مانا ہی کھائے اور میں پر غرے۔

میرزائی رہی نہیں پر تیرے کہے اپنا نام چاہے۔

میرزائی دانی کو کوستی ہے - (۱) مثل، (۲) مجھے کوستی ہے۔

میرزائی سنو - (۱) روزمرہ، (۲) میری بات یا نصیحت یا مشورہ فور سے سنو۔

میرزائی سی میرے آگے تیری سی تیرے آگے - (۱) مثل، (۲) ہر ایک کے سامنے

پہنچ کر کسی کی ماں میں ہاں ملانا۔

میرزائی طرف بھی دیکھنا - (۱) حمادہ، (۲) میرا بھی ملاحظہ کرنا۔ مجھ پر بھی

نظر عنایت رکھنا۔

میرزائی مرغی کی تین ٹانگ - (۱) مثل، (۲) ایسی چیز کی تعریف۔

میرزائی - (۱) سے، (۲) ڈا، (۳) ہذا، (۴) مجھے ہوئے کھیت کی زمین کو بھوار کرنے

کا ٹیڑا۔ ہسارک۔

میرزائی پھیرنا - (۱) حمادہ، (۲) مجھے ہوئے کھیت کی زمین کو ٹیڑا پھیر

کر بھوار کرنا۔

میرزائی - (۱) منٹ، (۲) کلائی کا اونچا تختہ جس پر کھانا رکھ کر کھاتے ہیں یا کھنے

کا کام کرتے ہیں۔ پیل۔

میرزائی بان - (۱) ف۔ ۱۰، (۲) وہ شخص جس کے یہاں جہان آئے۔ جہان دار۔

میرزائی بانی - (۱) منٹ، (۲) جہان کی نواسی۔ جہان نوازی۔ جہان کی خدمت۔

میرزائی لگانا - (۱) حمادہ، (۲) مین پر کھانا چمٹنا۔

میرزائی ناب - (۱) ری، (۲) ناب، (۳) ہذا، (۴) پرنال۔

میرزائی زان - (۱) ع۔ ۱۰، (۲) منٹ، (۳) ترازو، (۴) ملا ساس۔ آسمان کا ساتواں

بج ۲:۳۔ جم۔ جموع۔ چڑ۔

میرزائی اعمال (عدل) - (۱) ع۔ ۱۰، (۲) منٹ، (۳) مسلمانوں کے عقیدے میں وہ میزان جس میں قیامت کے روز لوگوں کے اعمال کو تولے جائیں گے۔

میرزائی پٹنا - (۱) حمادہ، (۲) مواقت، (۳) ہونا، (۴) سودا ہونا۔ بھاؤ بٹا ہونا، (۵) رائے ملنا۔

میرزائی دینا (لگانا) - (۱) حمادہ، (۲) چڑنا۔ جمع کرنا۔ چوڑ لگانا۔

میرزائی گل - (۱) ع۔ ۱۰، (۲) منٹ، (۳) تمام عدوؤں یا دشمنوں کا مجموعہ۔

میرزائی کھڑی ہونا - (۱) حمادہ، (۲) میزان قائم ہونا۔

میرزائی ملنا - (۱) حمادہ، (۲) مواقت، (۳) ہونا، (۴) رائے ملنا۔ مرضی ملنا۔

میرزائی نمیر - (۱) رکہ، (۲) زان، (۳) ع۔ ۱۰، (۴) ہذا، (۵) بھٹ۔ آمد و خروج کا تختہ۔

میرزائی (Missile) - (۱) گگ، (۲) منٹ، (۳) دیکھو میزائل۔

میرزائی (Mess) - (۱) گگ، (۲) ہذا، (۳) کھانا، (۴) خوراک، (۵) طعام، (۶) کھنے، (۷) کھانے

دلوں کی جماعت۔

میرزائی (م۔ ۱۰، ۲) منٹ، (۳) ع۔ ۱۰، (۴) آسان کی گائی، (۵) وہ چیز جو آسانی سے مل سکے، (۶) دستیاب

حاصل، (۷) موجود۔

میرزائی ہونا - (۱) حمادہ، (۲) حاصل ہونا، (۳) ہاتھ لگانا۔ ملنا۔

میرزائی (م۔ ۱۰، ۲) منٹ، (۳) ع۔ ۱۰، (۴) آسان کرنے والا۔

میرزائی (س۔ ۱۰، ۲) منٹ، (۳) ع۔ ۱۰، (۴) بائیں طرف۔ بائیں بازو کی قوج۔

میرزائی (ف۔ ۱۰، ۲) منٹ، (۳) بیٹھ، (۴) بھیر، (۵) گوسفند۔ بندھا۔

میرزائی چشم - (۱) منٹ، (۲) بھیر، (۳) سی آنکھوں، (۴) دالار، (۵) شرمیلا۔ نیچی

آنکھوں والا۔

میرزائی (س۔ ۱۰، ۲) منٹ، (۳) ع۔ ۱۰، (۴) بکری یا بھیر سے۔ تھے کا ملائم چڑا۔

میرزائی (ہی، ۱۰، ۲) منٹ، (۳) ع۔ ۱۰، (۴) مقررہ وقت، (۵) مقررہ مدت، (۶) وعدے کا وقت۔

میرزائی بڑھانا - (۱) حمادہ، (۲) وقت یا مدت زیادہ کرنا۔ مقررہ مدت کو

وسعت دینا۔

میرزائی لولینا - (۱) حمادہ، (۲) قید کا حکم لگانا۔ قید کرنا۔

میرزائی مشقتیہ - (۱) ع۔ ۱۰، (۲) منٹ، (۳) وہ مقررہ مدت جو ختم نہ

ہوئی ہو۔

میرزائی کھٹنا - (۱) حمادہ، (۲) قید کی مدت پوری کرنا۔

میرزائی گزرنانا - (۱) حمادہ، (۲) مدت پوری ہونا۔ ہسرت تمام ہونا۔ وعدے

کا زمانہ ختم ہونا۔

میرزائی مقررہ - (۱) ع۔ ۱۰، (۲) منٹ، (۳) قرار دیا ہوا زمانہ۔ معمولی وقت۔ حسب معمول۔

میرزائی (دی، ۱۰، ۲) منٹ، (۳) ع۔ ۱۰، (۴) عین وقت، (۵) قید ہونا۔

میرزائی بخار - (۱) منٹ، (۲) وہ بخار جو ایک خاص مدت تک چلے۔

میرزائی (سندھی) - (۱) منٹ، (۲) وہ ہنڈی جسے ادا کرنے کے لیے وقت مقرر ہو۔

میرزائی (م۔ ۱۰، ۲) منٹ، (۳) کالی گٹھا، (۴) بادل۔

میرزائی (ہی، ۱۰، ۲) منٹ، (۳) ع۔ ۱۰، (۴) مقررہ وقت، (۵) وہ جگہاں سے کوئی

جانے والے حج کا احرام باندھتے ہیں۔

میرزائی (س۔ ۱۰، ۲) منٹ، (۳) ع۔ ۱۰، (۴) عورت کے والدین کا گھر۔

میرزائی (حمادہ، ۱) عورت کا سر اٹھو کر ماں باپ کے گھر جا رہنا۔

سکن - (1-10-مشت) مچھلی ۲۰، آسمان کا بارھواں بُرج جس کی شکل مچھلی کی سی نظر آتی ہے۔

سکن میٹھ - (1-10-مشت) عیب - قیامت۔

سکن میٹھ نکالنا - (1-معاورہ) عیب نکالنا - نکتہ چینی کرنا۔ درہم ڈالنا۔

سکینا - (1-11-مشت) شیشہ - رنگ بزرگ کا شیشہ ۲۰، ایک قسم کے پتھر کا نام (۲۰) شراب کی بوتل - صراحی قرابہ ام، مریض کو دی نشتر دنگار - وہ بزرگ کام پر شیشے اور چاندی سونے کے زیور اور برتن پر بناتے ہیں (۵۰) اکٹائیا، شراب۔

مینا بازار - (1-11-مشت) اوہ بازار جو بادشاہ کی سیر کے لیے لگایا جائے اور اس میں طرح طرح کی چیزیں مہائی جائیں، زمانہ بازار - وہ بازار جہاں عورتیں ہی ہر طرح کی چیزیں بیچتی ہیں۔

مینا کار - (1-11-مشت) مریض ساڑھ بڑا ڈاکو م کرنے والا۔

مینا کاری - (1-11-مشت) چاندی سولے پر مریض سازی کیجئے کا کام باریکی - موشگافی۔

مینا کاری جھانٹنا - (1-11-معاورہ) مین میٹھ نکالنا - نکتہ چینی کرنا۔ ذرا ذرا سی بات پر نقص نکالنا - اپنی ادنیٰ فرق پر نظر کرنا۔

مینا سے - (1-11-مشت) ایک خوش الحان پرند (۲۰) جیسے چتے جو بیماری بپاوی پاشی کرتے ہیں۔

مینا جوڑ مین نا کہے دودھ بھات بنت کھائے - بکری جو میں میں کرے اسی کھا ل بھنجائے (1-11-مشت) عاجزی سے عزت زیادہ ہوتی ہے اور غرور سے نقصان پہنچتا ہے۔

مینا - (1-11-مشت) راجپوتانے کی ایک ہندو قوم جس کا پیشہ لوٹ مار چوری چکاری ہے۔

مینارا - (1-11-مشت) دیکھئے مینار۔

مینارٹی - (Minority) مینی نارٹی، لاگ، صفت اقلیت، قلت (۲۰) چھوٹا ماضی

مینارکا - (Minorca) مینی نارکا، لاگ، ایک دلائی مریخی۔

مینائے لاورو - (1-11-مشت) اکٹائیا، آسمان۔

مین پھل - (1-11-مشت) مین پھل، ایک ہمایت کرا پھل۔ مینٹل پیس (Mantel Piece) (1-11-مشت) مین پیس، لاگ، (۱-11-مشت) آتش آن لائن آتشخانے کے اوپر کا پھان۔

مینجنا - (1-11-مشت) دیکھئے مینا۔

مینجنگ پراپرٹیز - (Managing Proprietor) سے تعلق ہے۔

مینجنگ ڈائریکٹر - (1-11-مشت) ایک کا ماکہ جو خود ہی اتھم ہو۔

مینجنگ ڈائریکٹر - (Managing Director) کمپنی - بیک وغیرہ کا منتظم۔

میندی - (1-11-مشت) میندی۔

مینڈ - (1-11-مشت) ستار کا ایک بڑے ہاس کی مسل آواز۔

مینڈ - (1-11-مشت) اکیلیت کی منڈیر - باڈر ڈول - پشتہ - حد - کنارہ - (۲۰) مریض لہر (۳۰) گھاٹ مین - کنویں کی منڈیر۔

مینڈ بندی - (1-11-مشت) میندی - حد - پانڈھنا۔

مینڈ پڑنا - (1-11-معاورہ) مویں اٹھنا - پانی کا لہری لینا۔

مینڈرگ - (1-11-مشت) ایک قسم کا آبی حائل جو برسات میں پیدا ہو کر تلابوں اور جو پلوں کے کنارے لڑنا آ رہتا ہے۔ شوک۔

مینڈرگ چھوڑنا - (1-11-مشت) ایک قسم کا چھوڑا جو پلوں کے ٹوسے میں ہوتا اور بہت تکلیف دہتا ہے۔

مینڈرگ کی مینڈرگ - (1-11-مشت) مادہ مینڈرگ چھوڑنا مینڈرگ۔

مینڈرگ کی مینڈرگ - (1-11-مشت) اکیلیت مینڈرگ کی۔

مینڈرگ کی مینڈرگ - (1-11-مشت) اکیلیت مینڈرگ کی۔

مینڈرگ - (1-11-مشت) اکیلیت مینڈرگ کی۔

مینڈرگ - (1-11-مشت) اکیلیت مینڈرگ کی۔

مینڈرگ - (1-11-مشت) اکیلیت مینڈرگ کی۔

مینڈرگ - (1-11-مشت) اکیلیت مینڈرگ کی۔

مینڈرگ - (1-11-مشت) اکیلیت مینڈرگ کی۔

مینڈرگ - (1-11-مشت) اکیلیت مینڈرگ کی۔

مینڈرگ - (1-11-مشت) اکیلیت مینڈرگ کی۔

مینڈرگ - (1-11-مشت) اکیلیت مینڈرگ کی۔

مینڈرگ - (1-11-مشت) اکیلیت مینڈرگ کی۔

مینڈرگ - (1-11-مشت) اکیلیت مینڈرگ کی۔

مینڈرگ - (1-11-مشت) اکیلیت مینڈرگ کی۔

مینڈرگ - (1-11-مشت) اکیلیت مینڈرگ کی۔

مینڈرگ - (1-11-مشت) اکیلیت مینڈرگ کی۔

مینڈرگ - (1-11-مشت) اکیلیت مینڈرگ کی۔

مینڈرگ - (1-11-مشت) اکیلیت مینڈرگ کی۔

مینڈرگ - (1-11-مشت) اکیلیت مینڈرگ کی۔

مینڈرگ - (1-11-مشت) اکیلیت مینڈرگ کی۔

مینڈرگ - (1-11-مشت) اکیلیت مینڈرگ کی۔

مینڈرگ - (1-11-مشت) اکیلیت مینڈرگ کی۔

مینڈرگ - (1-11-مشت) اکیلیت مینڈرگ کی۔

مینڈرگ - (1-11-مشت) اکیلیت مینڈرگ کی۔

مینڈرگ - (1-11-مشت) اکیلیت مینڈرگ کی۔

مینڈرگ - (1-11-مشت) اکیلیت مینڈرگ کی۔

مینڈرگ - (1-11-مشت) اکیلیت مینڈرگ کی۔

مینڈرگ - (1-11-مشت) اکیلیت مینڈرگ کی۔

ن

ن - (نون) ذ- مذکر اُردو کا تیسواں، فارسی کا آنتیسواں، عربی کا پچیسواں اور ہندی کا بیسواں حرف۔ ایکچ میں اس کے پچاس عدد مقرر ہیں۔
 (۱) یہ حرف ہندی الفاظ کے شروع میں نغی کے واسطے آتا ہے اور ہمیشہ مکسور ہوتا ہے۔ جیسے نڈر (۲) ہندی اور فارسی میں الفاظ کے آخر میں مصدر کی علامت بھی ہے جیسے کردن، مرون، الجین، ہائین، وغیرہ (۳) کبھی لفظ کے آخر میں اگر نسبت کا فائدہ دیتا ہے جیسے سہاگن، ناگن۔ (۴) کبھی تائید ظاہر کرتا ہے جیسے مالن، دھوبن (۵) ٹونٹ الفاظ میں بن کے آخر میں یا ہو۔ جمع کے واسطے آتا ہے جیسے گریاں، پڑیاں۔ (۶) کسی لفظ میں پ، مچھ، ب، بھ سے پیشتر آنے پر اس کی آواز میم سے بدل جاتی ہے۔ جیسے منبر، سنبل، صوتی اعتبار سے نون کی دو قسمیں ہیں، نون غنہ اور نون اعلانیہ، نون غنہ ناک میں بولا جاتا ہے۔ مادراس میں کئی حرکت نہیں ہوتی۔ جیسے چینٹی، (۷) عربی الفاظ میں بن کے آخر میں نون ہو اور نون سے پہلے حرف علت ہو اور حرف علت کے ماقبل کی حرکت موافق ہو تو نون غنہ آئے گا۔ جیسے قاروں۔ علیحدہ کلمے میں بھی لفظ نہیں دیتے، جیسے دشمن جان (۸) عربی تقسیم کے مطابق یہ قسمی حرف ہے۔ اس سے پہلے اگر "ال" آجائے تو لام اپنی آواز نہیں دے گا۔ جیسے "النظر" (۹) الف کے ساتھ آئے تو جمع بنا دیتا ہے، جیسے مردان (۱۰) ہندی الفاظ کے آخر میں اگر کان کو حاصل مصدر بنا دیتا ہے۔ جیسے الجین، (۱۱) فعل اور اسم سے پہلے مفتوح آئے تو نغی کے معنی دیتا ہے۔

ن - ۱

نابیر۔ (ن صفت) عذر کرنے والا۔ انکار کرنے والا۔
 نابکار۔ (ن صفت) (۱) نکمٹا۔ بے فائدہ۔ بے کار (۲) بد ذات۔ نالائق۔ شریر۔
 بدکار (۳) نازیبا۔ خراب۔ بے ہودہ۔
 نابلد۔ (ن صفت) استہان۔ نادائق۔ نا آشنا۔
 نابلدی۔ (ن صفت) (۱) مشا۔ ناداقیت۔
 نابوڈ۔ (ن صفت) (۱) نسیبت۔ معدوم۔ فانی۔ ناپید۔
 نابینا۔ (ن صفت) اندھا۔ کور۔
 ناباک۔ (ن صفت) (۱) پلید۔ نجس۔ گندہ۔ میلا۔ (۲) وہ شخص جس پر نہانا فرض ہو۔
 ناباک ہونا۔ (۱) محاورہ) پلید ہونا۔ گندہ ہونا۔ غسل واجب ہونا۔
 ناپائی۔ (ن صفت) (۱) سناست۔ گندگی۔
 ناپائی تارنا۔ (۱) محاورہ) (۱) سناست۔ ازالہ اہتمام وغیرہ کے بعد نہانا (۲) جین و نفاس سے فارع ہو کر غسل کرنا۔
 ناپا سیدار۔ (ن صفت) کزور۔ بے ثبات۔ فانی۔ بودا۔
 ناپا سیداری۔ (ن صفت) (۱) کزوری۔ بے ثباتی۔ بوداپن۔
 ناپختہ کار۔ (ن صفت) نا تجربہ کار۔
 ناپید۔ (ن صفت) (۱) جو ظاہر نہ ہو (۲) پوشیدہ۔ غائب۔ چھپا ہوا۔ مخفی۔
 ناپرسال۔ (ن صفت) بے پرواہ۔ نہ پوچھنے والا۔
 ناپرہیزگار۔ (ن صفت) گنہگار۔ بے عصمت۔ بدکار۔
 ناپشند۔ (ن صفت) ناگوار۔ بوجھا نہ گئے۔
 ناپشند کرنا۔ (۱) محاورہ) ہانٹنا۔ منظور کرنا۔ قبول نہ کرنا۔ اچھا نہ لگنا۔ بُرا لگنا۔
 ناپشندیدہ۔ (ن صفت) ناگوار۔ نامشور۔ بار خاطر۔
 ناپشید۔ (ن صفت) (۱) معدوم۔ فنا۔ نیست۔ (۲) غائب۔ گم۔
 ناپشید کرنا۔ (۱) محاورہ) برابر کرنا۔ کھونا۔ اچھا کرنا۔ فنا کرنا۔
 ناپشید ہونا۔ (۱) محاورہ) (۱) اچھا۔ گم ہونا۔ تباہ و برباد ہونا (۲) قتل ہونا۔ کمی ہونا۔
 منتقا ہونا۔
 ناپشیدار۔ (ن صفت) غائب۔ چھپا ہوا۔

نا۔ (ن صفت) (۱) نہ۔ نہیں (۲) علامت نغی (۳) ہندی اُردو مصدر کی علامت جو کہ آخر میں آتی ہے (۴) اثبات و نفی کی تاکید کے لیے۔ جیسے یہ بچہ ہے نا۔ (اثبات)۔ نا بابا، ہمارا اور ہی سے سلام ہے (نفی) (۵) زمانہ سخن کلام کے لیے جیسے چلونا۔ اڈونا۔ (۶) استفسار کے لیے جیسے آخر کو ہے نا۔
 نا از مودہ۔ (ن صفت) (۱) نا تجربہ کار۔ نا اڑی۔ (۲) بغیر آزمائش۔ بغیر دیکھے بجائے۔
 نا از مودہ کار۔ (ن صفت) اٹاری۔ نا تجربہ کار۔ ناپختہ کار (۲) نادائق۔
 نا آشنا۔ (ن صفت)۔ نادائق۔ اجنبی۔ جس سے جان پہچان نہ ہو۔ نا محرم۔
 نا آشنائی۔ (ن صفت) (۱) مشا۔ جان پہچان نہ ہونا۔ ناداقیت۔
 نا آشنائے محض۔ (ن صفت) بالکل نادائق۔
 نا آگاہ۔ نادائق۔
 نا اعلانی۔ (ن صفت) (۱) مشا۔ پھوٹ۔ نفاق۔ بگاڑ۔ عداوت۔ دشمنی۔
 نا اعلانی۔ (ن صفت) بے پروائی۔ بے اعتنائی۔
 نا امید۔ (ن صفت) (۱) مایوس۔ ناکام۔ بے آس۔ نراس۔
 نا امید ہونا۔ (۱) محاورہ) مایوس ہونا۔ آس لاشنا۔
 نا امیدگی۔ (ن صفت) (۱) مایوسی۔ ناکامی۔
 نا اندیش۔ (ن صفت) نہ سوچنے والا۔ بات جس میں سوچنے کی ضرورت نہ ہو۔
 نا انصاف۔ (ن صفت) وہ شخص جو انصاف نہ کرے۔
 نا انصافی۔ (ن صفت) (۱) بے انصافی۔ ظلم۔ اندھیر۔
 نا ابل۔ (ن صفت) ع۔ نالائق۔ ناموزوں۔ ناشائستہ۔
 نا ابل۔ (ن صفت) (۱) مشا۔ نالائق۔
 نا ابلج۔ (ن صفت) (۱) گم بہن جو بولے کو نہ پہنچا ہو۔
 نا ابلجی۔ (ن صفت) (۱) مشا۔ گستی۔ خورد سالی۔ صغر سنی۔

نایبہ کنار۔ (ف) صف) سمندر یا دریا جس کا کنارہ اگھائی نہ دے۔
 ناخبر بہ کار۔ (ف) صف)۔ انجان۔ ناواقف۔ ناواقف۔ جس کو کام کا تجربہ نہ ہو۔
 نا تراش۔ نا تراشیدہ۔ (ف) صف) (۱) نا ہموار۔ (۲) بے ادب (۳) کینہ سفلہ۔
 نا تربیت یافتہ۔ (ف) صف) غیر مہذب۔ بد مہذب۔
 نا ترس۔ (ف) صف) جسے ڈر نہ ہو۔ بے رحم۔ سنگ دل۔
 نا تمام۔ (ف) صف) نامکمل۔ اُدھورا۔ ناقص۔
 نا توان۔ (ف) صف) کمزور۔ نا طاقت۔ لودا۔ لا مضر ضعیف۔
 نا توانی۔ (ف)۔ (۱) مٹ) کمزوری۔ نا طاقتی۔ نفاہت۔
 نا جانز۔ (ف)۔ (ع) صف) (۱) جو درست نہ ہو (۲) شرع یا قانون کے خلاف۔
 نا جانز حال۔ (ف)۔ (ع)۔ (۱)۔ (۲) وہ مال جس کا لینا قانوناً یا شرعاً جائز نہ ہو۔
 نا جنس۔ (ف) صف) (۱) غیر جنس۔ ناموافق۔ سائن میل۔ (۲) کینہ سفلہ (۳) بے لوب۔
 ناچار۔ (ف) صف) (۱) عاجز۔ مجبور۔ بیچارہ۔ (۲) بالضرور۔ (۳) مطلق۔ محتاج۔
 ناچار (۴) مایوس۔ نا امید (۵) مجبوراً۔ بارک۔
 ناچار کر دینا۔ (۱) مجبور کر دینا۔ عاجز کرنا۔
 ناچارگی۔ (ف)۔ (۱) مٹ) بے چارگی۔ بے بسی۔ مجبوری۔
 نا حاقی۔ (ف) صف) (۱) علیل۔ بد مزہ (۳) ڈبلا۔ کمزور۔
 نا حاقی۔ (ف)۔ (۱) مٹ) (۱) علیل۔ (۲) بد مزگی۔ (۳) اُن بن۔ بگاڑ۔
 نا چیز۔ (ف) صف) (۱) بیچ (۲) نا کارہ شے۔ ناقابلِ حقیر۔ اولیٰ۔ ذلیل۔
 نا حق۔ (ف) صف) (۱) بے انصافی سے۔ حق کے خلاف۔ (۲) بے جا۔ نامناسب۔ بے فائدہ۔
 نا حق شناس۔ (ف) صف) بے انصاف۔ بے وفا۔ سچائی کو نہ پہچاننے والا۔ ظالم۔
 نا حق شناسی۔ (ف)۔ (۱) مٹ) بے انصافی۔ ظلم۔
 نا حق کا۔ (۱) صف) فضول۔ بے فائدہ۔
 نا حق کرنا۔ (۱) مجاورہ) حق کے خلاف۔ نا انصافی کرنا۔ بے جا کرنا۔
 نا حق کو۔ (۱) تابع فعل) بے سبب۔ بے فائدہ۔
 نا حق گوش۔ (ف) صف) نا حق بات کی گوش کرنے والا۔
 نا حق کہنا۔ (۱) مجاورہ) (۱) حق کے خلاف کہنا (۲) جھوٹ بولنا۔ جھوٹ کہنا۔
 نا خدا ترس۔ (ف) صف) (۱) بے رحم۔ ظالم (۲) خدا کا خوف نہ کرنے والا۔
 نا خلع۔ (ف) صف) (۱) نالائق بیٹا (۲) والدین کی اطاعت نہ کرنے والا۔
 نا خواست۔ (ف) صف) بے اختیار۔ بے طلب۔ بے تلاش۔ بغیر چاہے۔
 ناخواندہ۔ (ف) صف) (۱) اُن پڑھ بے علم۔ جاہل (۲) بغیر پلایا ہوا۔ بن پلایا ہوا۔
 ناخواندہ جہان۔ (ف)۔ (ش)۔ (۱) بن پلایا جہان (۲) طفیل جو بن پلایے کسی مدعو کے ساتھ آئے۔
 نا خوش۔ (ف) صف) (۱) ناراض۔ جو راضی نہ ہو۔ (۲) بیزار۔ نفرت کرنے والے (۳) بیمار۔ مریض۔
 نا خوش گواری۔ (ف) صف) نا پسندیدہ۔ جو برا معلوم ہو۔
 نا خوشی ہونا۔ (۱) مجاورہ) ناراض ہونا۔ بخفا ہونا۔ بیزار ہونا۔ رنجیدہ ہونا۔
 نا خوشی۔ (ف)۔ (۱) مٹ) خشکی۔ ناراضگی۔ بے زاری۔ رنجش۔

نادار۔ (ف) صف) غریب۔ محتاج۔ کنگال۔
 ناداری۔ (ف)۔ (۱) مٹ) مفلسی۔ غریبی۔ تنگ دستی۔
 ناداری آتما۔ (۱) مجاورہ) مفلس ہو جانا۔ کنگال ہو جانا۔
 نادان۔ (ف) صف) (۱) نا سمجھ۔ بے وقوف۔ (۲) احمق۔ جاہل۔ (۳) انجان (۴) کم سن۔ چھوٹی عمر کا۔
 نادان بات کرے وانا قیاس کرے۔ (۱) اشل) بے وقوف فضول باتیں کرتا رہتا ہے۔ عقلمند ہر بات پر کہتا ہے۔
 نادان بننا۔ (۱) مجاورہ) تجاہل حاصل کرنا۔ ایسے بھولے بنا کر جیسے کچھ جانتے ہی نہیں۔
 نادان پن۔ (۱) صف) بے وقوفی۔ جہالت۔
 نادان دوست سے وانا دشمن بھلا۔ (۱) اشل) ایسے وقوف دوست سے عقلمند دشمن کی نسبت زیادہ نقصان پہنچتا ہے۔
 نادان کی دوستی جی کا زیاں۔ (۱) اشل) بیوقوف کی دوستی میں سراسر خطرہ ہے۔
 نادانستی۔ (ف)۔ (۱) مٹ) ناواقفیت۔ بے خبری۔ لاعلمی۔
 نادانستہ۔ (ف)۔ (۱) مٹ) فعل) بے قصد۔ اُن جانے۔ بھولے سے۔ ناواقفیت سے۔ سہواً۔
 نادانی۔ (ف)۔ (۱) مٹ) جہالت۔ بے وقوفی۔ نا سمجھی۔
 نادورست۔ (ف) صف) غلط۔ بے جا۔ نامناسب۔
 ناوہ نہر۔ (ف) صف) قرض سے کروا لینے والے۔ والا۔ حق مارنے والا۔
 ناوہ بندی۔ ناوہ بندی۔ (ف)۔ (۱) مٹ) قرض سے کروا لینے والے۔ ناوہ بندی۔
 ناوہ بندی۔ (ف)۔ (۱) مٹ) وہ چیز جو دیکھنے کے قابل نہ ہو۔
 ناوہ بندہ۔ (ف)۔ (۱) مٹ) اُن دیکھا۔ جسے دیکھا نہ ہو۔ (۲) ندیدہ جس نے کبھی دیکھا نہ ہو۔
 ناراض۔ (ف) صف) (۱) طیڑھا۔ کج۔ (۲) دروغ۔ جھوٹ۔ نامناسب۔ (۳) کھوٹا آدمی۔
 ناراضی۔ (ف) صف) ناخوش۔ رنجیدہ۔
 ناراضگی۔ ناراضگی۔ (ف)۔ (۱) مٹ) ناخوشی۔ رنجیدگی۔
 ناراس۔ (ف)۔ (۱) مٹ) (۱) کچا۔ خام۔ (۲) نامکلف۔
 ناراسا۔ (ف) صف) (۱) نہ پہنچنے والا۔ (۲) بے اثر۔ (۳) نامراد۔
 ناراضی۔ (ف)۔ (۱) مٹ) پہنچ نہ ہونا۔ بار پائی نہ ہونا۔
 ناراضی۔ (ف)۔ (۱) مٹ) خامی۔ آزمودہ کار نہ ہونا۔
 ناراضیدہ۔ (ف) صف) (۱) نہ پہنچا ہوا۔ (۲) خام۔ کچا۔ (۳) نامکمل۔ (۴) نابالغ۔
 ناروا۔ (ف) صف) (۱) نا جائز۔ بے جا۔ (۲) خلاف شرع۔ (۳) نامناسب۔
 ناروا۔ (ف)۔ (۱) مٹ) وہ سکھ یا جنس جس کا رواج نہ ہو۔ محروم۔ بے نصیب۔
 نارویا۔ (ف) صف) (۱) نامناسب۔ غیر موزوں۔ (۲) بد مزہ۔ بد نما۔
 ناساز۔ (ف) صف) (۱) ناموافق۔ مخالف۔ (۲) بیمار۔
 ناسازگار۔ (ف) صف) (۱) مخالف۔ ناموافق۔
 ناسازگاری۔ (ف)۔ (۱) مٹ) ناموافقیت۔ مخالفت۔
 ناسازی۔ (ف)۔ (۱) مٹ) (۱) ناموافقیت۔ (۲) بیماری۔ علامت۔
 ناسازی بخت۔ (ف)۔ (۱) مٹ) بد قسمتی۔
 ناسازی طبیعت۔ (ف)۔ (۱) مٹ) بیماری۔ بیمار ہونا۔

ناسیاس - (ف. صفت) ناشکر گزار، ناشکر۔
 ناسیاسی - (ف. ۱۔ مثن) نمک حرامی۔ احسان نہ ماننا۔
 ناستوتوہ - (ف. صفت) ناپسندیدہ۔ بے جودہ۔ نالائق۔
 ناسرہ - (ف. صفت) غیر خالص۔ کھوٹ لایا ہوا۔
 ناسرزا - (ف. صفت) ۱) نازیبا۔ نامناسب۔ بے جا۔ غلط۔ ۲) سفید۔ کینہ۔
 ۳) نالائق۔ بیوقوف۔
 ناسرژوار - (ف. صفت)۔ منوس۔ نامبارک۔
 ناسفقتہ - (ف. صفت) ۱) جس میں سوراخ نہ ہو۔ ۲) آن بندھار ۳) کٹھنیت و دشمنیہ۔ کنواری۔
 ناسمجھ - (ف. ۱۔ صفت) ۱) بے وقوف۔ احمق۔ نادان۔ ۲) گند ذہن۔ عیبی۔
 ۳) بڑے بڑے عمر کم سن۔
 ناسمجھی - (ف. ۱۔ مثن) ۱) بے وقوفی۔ نادانی۔ ناہنجی۔ بھولاپن۔
 ناشاد - (ف. صفت) ۱) رنجیدہ۔ تلکین ۲) بد قسمت۔
 ناشاد و جاننا - (۱۔ محاورہ) ۱) نامراد جاننا۔ مایوس جاننا۔
 ناشاد و نامراد - (ف. صفت) بد نصیب۔ بد بخت۔
 ناشاد نامراد جانتے - (۱۔ بد و کا) ارمان لے کر مر جاتے۔ دنیا سے بے اس
 اولاد مر جاتے۔
 ناشائستگی - (ف. ۱۔ مثن) بد تمیزی۔ بد اسلوبی۔ گستاخی۔ نالائقی۔
 ناشائستہ - (ف. صفت) ۱) نالائق ۲) بد تمیز۔ بد اخلاق ۳) نازیبا۔
 ناشائندی - (ف. صفت) ۱) نامکرم۔ محال ۲) ناخلف۔ بد بخت۔ بد نصیب۔
 ناشکر - (۱۔ صفت) احسان نہ ماننے والا۔ شکر نہ کرنے والا۔
 ناشکری - (ف. ۱۔ مثن) ۱) احسان نہ ماننا۔ ۲) نمک حرامی۔
 ناشکری کرنا - (۱۔ محاورہ) احسان نہ ماننا۔ نمک حرامی کرنا ۲) کفرانِ نعمت کرنا۔
 ناشکریب - (ف. صفت) بے صبر۔ بے قرار۔
 ناشکیبائی - (ف. ۱۔ مثن) بے صبری۔ بے قراری۔
 ناشکفتہ - (ف. صفت) ۱) بے کھلی ۲) ناخوش ۳) اُداس۔ رنجیدہ۔
 ناشیاس - (ف. صفت) جو نہ پہچانتا ہو۔ نہ پہچاننے والا۔
 ناشنوا - ناشنوا - (ف. صفت) جو کسی کا پرسان حال نہ ہو۔ نہ سننے والا۔ غافل۔ بے توجہ۔
 ناشصاف - (ف. صفت) جو پاک و صاف نہ ہو۔
 ناشنبور - (ف. ع. صفت) بے صبر۔ بے قرار۔ مضطرب۔
 ناشواب - (ف. ع. صفت) غلط۔ نادرست۔
 ناشاقبت - (ف. ع. صفت) کمزور۔ ضعیف۔
 ناشاقبتی - (ف. ۱۔ مثن) کمزوری۔ ناقوانی۔ لاعزمی۔ ضعیف۔
 ناشاقبت اندیش - (ف. صفت) انجام نہ سوچنے والا۔ انجام کی فکر نہ کرنے والا۔
 ناشفرجام - (ف. صفت) ناشاقبت۔ نااندیش۔ بداصل۔ بد انجام۔
 ناشفرمان - ناشفرمانبردار - (ف. صفت) ۱) حکم نہ ماننے والا۔ سرکش۔ ۲)
 ایک پھول کا نام۔
 ناشفرمانی - (ف. ۱۔ مثن) حکم عدولی۔ سرکشی۔ حکم نہ ماننا۔
 ناشفہم - (ف. صفت) نادان۔ بے سمجھ۔ کم عقل۔ بے وقوف۔
 ناشقابل - (ف. صفت) نالائق۔ جناب۔ ان پرچہ۔ ناموزوں۔
 ناشقابل برداشت - (ف. صفت) برداشت کے لائق نہ ہونا۔

ناقابلیت - (ف. ۱۔ مثن) نالائقی۔ بے قدری۔ کم استعدادی۔
 ناقدر۔ ناقدر - (ف. صفت) کسی کی قدر نہ پہنچانے والا۔ ۲) احسان فراموش
 بے ثروت۔
 ناقدری - (ف. ۱۔ مثن) ۱) بے قدری۔ بے وقوفی ۲) قدر نہ کرنے والی عورت۔
 ناکارہ - (ف. صفت) ۱) ناکام۔ بے کار ۲) بُرا۔ خراب ۳) سست۔ اچانچ۔
 ناکام - (ف. صفت) ۱) محروم۔ ناکامیاب ۲) نامراد۔
 ناکامی - (ف. ۱۔ مثن) ۱) ناکامی۔ مایوسی ۲) ناکامیابی۔ محرومی۔
 ناکامیاب - (ف. صفت) ناکام۔ نامراد۔ قیل ہو جانے والا۔
 ناکامیابی - (ف. ۱۔ مثن) ۱) ناکامی ۲) کسی کام کا حسبِ منشا نہ ہونا۔
 امتحان میں قیل ہو جانا۔
 ناکستندار۔ ناکستندار - (ف. صفت) ۱) بن بیاہا۔ جس کی شادی نہ ہوئی ہو۔ کنواری۔
 ناکرونی - (ف. ۱۔ مثن) جو بات کرنے کے لائق نہ ہو۔
 ناکردہ - (ف. صفت) نہ کیا ہوا۔ اکیلا استعمال نہیں ہوتا۔
 ناکردہ (جرم) گناہ - (ف. صفت) بیگناہ۔ بے قصور۔ بے خطا۔
 ناکردہ کار - (ف. صفت) ناتجربہ کار۔ ناچختہ کار۔ کچا۔ خام۔ آناڑی۔
 ناکرنا - (۱۔ محاورہ) نئی میں جواب دینا۔
 ناکرندہ۔ ناکرندی - (ف. صفت) کسی کو بھیج جانی ۱) قتل ۲) بدی کا نتیجہ بُرا ہونا ہے۔
 ناکس - (ف. صفت) ۱) بیخ۔ کینہ۔ سفید۔ پاجبی ۲) نالائق۔
 ناکسی - (ف. ۱۔ مثن) ۱) کم ظرفی۔ کینہ۔ پاجبی ۲) نالائق۔
 ناکندہ - (ف. ۱۔ مذ) ۱) وہ بچھیرا جس کے اچھی دودھ کے دانت ہوں۔
 ۲) ناسمجھ۔ ناتجربہ کار۔
 ناگاہ - (ف. تابع فعل) اچانک۔ یکایک۔
 ناگزیر - (ف. صفت) ضروری۔ لازم۔ واجب۔ جس سے صفر نہ ہو۔
 ناگفتنی - (ف. صفت) وہ بات جو کہنے کے قابل نہ ہو۔
 ناگفتہ بہ - (ف. صفت) ۱) جس کا نہ کہنا بہتر ہو ۲) شرم نامک۔
 ناگہنی - (۱۔ صفت) ۱) احسان فراموش عورت۔ ناشکری۔
 ناگوار - (ف. صفت) ۱) ناپسند۔ مکروہ۔ ناخوش ۲) وہ کھانا جو ہضم نہ ہو سکے۔
 ۳) بد ذائقہ۔ بے لطف۔
 ناگوارا - (ف. صفت) ناپسند۔ خلاف طبع۔
 ناگوار گزرتا - (۱۔ محاورہ) بُرا لگنا۔ اچھا معلوم نہ ہونا۔ خلاف طبع ہونا۔
 ناگہاں - (ف. ۱۔ مثن) ۱) اچانک۔ دفعۃً۔ یکایک - (۲)
 بے خبری میں ۳) اچانک۔ دفعتاً۔
 ناگہانی - (ف. صفت) اتفاقیہ۔ اچانک۔
 نالائق - (ف. ع. صفت) ۱) ناقابل۔ ناہل۔ سفید۔ کینہ۔ ۲) بیجا۔ نامناسب۔
 نالائقی - (۱۔ مذ) کینگی۔ سفید پرن۔
 نالائقی - (ف. ع. ۱۔ مثن) ۱) کینہ۔ ۲) ناقابلیت۔
 نامانوس - (ف. ع. ۱۔ صفت) ناآشنا۔ اجنبی۔ بے گانہ۔
 نامبارک - (ف. ع. ۱۔ صفت) منوس۔ بدشگون۔ جس۔ بد۔ بُرا۔
 ناقصانہی - (ف. ع. صفت) لا محدود۔ لا ہوتا۔ بے حد۔ بے تھاہ

نامحرم - (ن - ع - صف) ۱۱) ناواقف - نا آشنا - نا سجا - غیر انجینی - وہ شخص جس سے نکاح جائز ہو - اور عورت کو پرہ واجب ہو -
 نامراد - (ن - ع - صف) ۱۱) ناکام - محروم - بے نصیب - کم بخت -
 نامراد جانا - (۱) محاورہ (مراد پوری ہوئے بغیر جانا -
 نامراد کی - (۱) ناکامی - محرومی (۲) بد نصیبی
 نامرکوب - (ن - صف) بے ربط سے میل - نامزدون - بے جوڑ - بے ترتیب -
 نامرد - (۱) بیچارہ - زمانہ - زخمہ (۲) ڈر لوگ - بے حوصلہ (۳) وہ مرد جو عورت پر قادر نہ ہو (۴) وہ بولڑائی میں بھاگ جاتے -
 نامرد کرنا - (۱) محاورہ (بیچارہ بنانا - سخت کرنا -
 نامرد ہاتھی ایسے ہی شکر کو مارتا ہے - (۱) شل (۱) اس موقع پر بولتے ہیں جب کوئی تم بہت آدمی زبردست دشمن پر قادر نہ چلا سکے - اور اپنے ہی زیر دستوں پر بے جا رگب جمائے -
 نامرد ہونا - (۱) محاورہ (۱) ڈر لوگ ہونا (۲) وقت شہوانی نہ رہنا -
 نامردی - (۱) محاورہ (۱) بڑوں کی (۲) علم بر ولایت -
 نامسا بعد - (ن - ع - صف) ناموافق - ناسازگار -
 نامسا عدت - (ن - ع - صف) ناموافق - نامسا عدت - ناسازگاری -
 نامسعد - (ن - ع - صف) ناممک -
 نامسلم - (ن - ع - صف) کافر - مشرک -
 نامشخص - (ن - ع - صف) ۱) اے تحقیق - غیر متین (۲) جو ایک وضع پر قائم نہ رہے (۳) وہ جس کی پڑتال نہ لگھی گئی ہو -
 نامطابق - (ن - ع - صف) ناموافق -
 نامطبوع - (ن - ع - صف) ناپسندیدہ - ناگوار - غلات طبع -
 نامعتبر - (ن - ع - صف) جس کا اعتبار نہ ہو -
 نامعقول - (ن - ع - صف) ۱) ناپسندیدہ (۲) جو عقل میں نہ آسکے - بے وقوفی کی بات (۳) احمق آدمی -
 نامعقولیت - (ن - ع - صف) ۱) بے وقوفی - حماقت -
 نامعلوم - (ن - ع - صف) ۱) نام نام - غیر شہور (۲) انجان - نہ جانا ہوا -
 ناملا کم - (۱) کڑا - سخت (۲) نامناسب - نازیبا -
 ناممکن - (ن - ع - صف) نہ ہونے والی - ان کوئی - خارج از امکان -
 ناممکنات - (ن - ع - صف) وہ باتیں جو ممکن نہ ہوں - ناممکن کی جمع -
 نامنا سبب - (ن - ع - صف) ناپسندیدہ - نامعقول
 نامشظور - (ن - ع - صف) انکار کیا گیا - نامعقول -
 نامشظور کرنا - (۱) مص مرکب (۲) مانا - انکار کرنا - پسند نہ کرنا -
 نامشظوری - (ن - ع - صف) کسی کی درخواست کا قبول نہ کیا جانا -
 ناموافق - (ن - ع - صف) جو موافق نہ ہو - خلاف - ناگوار -
 ناموافق ہونا - (۱) اس نہ آنا - خلاف ہونا -
 ناموافقیت - (ن - ع - صف) ۱) ان بن - شکر رنجی - بگاڑ - موافق نہ ہونا - مطابق نہ ہونا -
 ناموزون - (ن - ع - صف) ۱) نازیبا - بے جوڑ - ناموافق - بے میل (۲) بے تالا - بے محرار (۳) جسے خارج شعر وغیرہ -

نامہربان - (ن - صف) ۱) بے وفا - بے مروت - بے رحم (۲) دشمن - بدخواہ - بداندیش - بیبری -
 نامہربانی - (ن - صف) ۱) بے مروتی - دشمنی -
 نادوجب - (ن - صف) بیجا - نامناسب - نازیبا -
 نادوجب العمل - (ن - صف) جس پر عمل نہ کر سکے -
 ناواقف - (ن - صف) انجان - نامحرم - جاہل - نا تجربہ کار -
 ناواقفیت - (ن - صف) ۱) مرث (۲) جہالت - نا تجربہ کاری - ان جان پرن -
 ناوقت - (ن - صف) بے وقت - بے موقع -
 ناہموار - (ن - صف) ۱) اوسچا - نیچا (۲) ناموافق - بے ہودہ - نالائق - ناشائستہ -
 ناہنجار - (ن - صف) بد چلنی - بد ذات - کمینہ - بد کردار -
 نایاب - (ن - صف) نادر - وہ چیز جو عیسرہ کئے - ناپید (۲) بیش قیمت - (۳) وہ چیز جو بہت کم میسر آئے -
 ناب - (ن - صف) ۱) جس میں غلاظت نہ ہو - خالص - صاف - مرکبات میں جیسے شراب ناب (۲) (مرث) تلوار کی نالی جو قبضے سے ٹوک تک (دو طرفہ ہوتی ہے) (۳) ستون کی نالی (۴) بجلی - دائرہ (۵) (ن - ۱) ڈھانچہ قالب (۶) مخلص - صادق -
 ناہدار - (ن - صف) جس میں گھیریں یا نالیوں ہوں -
 ناہندان - (ناب - دان) (ن - ۱) ہند - پالی نکلنے کی زمین دوز موری -
 نالغہ - (ناب - غہ) (ع - صف) بے حد ذہین - فطین -
 نا بھجھ - (نابجھی - رس - مرث) ناف -
 نا بھارت - (ناب - بھارت) (۱) مرث (۲) وہ بھاری جو گھوڑے کے زیر ناک ہو یہ سخت میسوب ہے -
 ناب - (۱) مرث (۲) پیمانہ - اندازہ پیمائش - ماپ -
 ناب قول - (۱) مرث (۲) جو کہ پیمائش اور قول -
 ناب کا لورا - (۱) تابع فعل (۲) وہ جوان آدمی یا گھوڑا جو مقررہ ناب میں ٹھیک ہو -
 ناپنا - (ناب - نا) (۱) مص (۲) پیمائش کرنا - اندازہ کرنا -
 ناپینا - (ناب - پ) (ن) (۱) انکار -
 نانت - (۱) ہند - دیکھیے نانتا (۲) دیکھیے نانتہ -
 نانت کا نہ گوٹ کا نانتا مانگے پوتھہ کا - (۱) شل (۲) اس آدمی کے متعلق کہتے ہیں جو خواہ خواہ رشتہ داری بنائے -
 نانتا - (۱) ہند (۲) رشتہ - قرابت - رشتہ داری - بھائی بندی - (۲) تعلق - علاقہ - واسطہ - میل - لگاؤ -
 نانتا توڑنا - (۱) محاورہ (۲) تعلق نہ کرنا - رشتہ توڑنا -
 نانتا توڑنا - (۱) محاورہ (۲) تعلق نہ رہنا - رشتہ نہ رہنا -
 نانتا توڑنا - (۱) محاورہ (۲) رشتہ جوڑنا - نیا رشتہ قائم کرنا -
 نانتا چھوٹنا - (۱) محاورہ (۲) تعلق ٹوٹ جانا -
 نانتے دار - (۱) ہند (۲) رشتہ دار -
 نانتین - نانتی - (نانتی - نانت) (ن) (۱) مرث (۲) نواسی -

ناچ نہ جانے آتنگن ٹیڑھا۔ (۱) شل، کام ڈگے مگر میلے بہانے سے ٹان چاہے۔

ناچنا ناچ۔ (۱) رقص کرنا، تھرکان، نرت کرنا، (۲) غصے یا غصلی میں تھلانا، بگڑنا، (۳) اچھننا، گڈنا۔

ناچنی۔ (۱) ناچنے والی، (۲) رقص، رقصہ ناچنے والی۔

ناچنے نکلے لوگھو نکلے کیسا۔ (۱) شل، جب کئی کام کرنا ہی ہے تو شرم کیسی، کسی عیب دار کام کرنے پر کہتے ہیں۔

ناچے کودے توڑے تان واکا دیکھنا رانگھے مان۔ (۱) شل، جو شخص دنیا میں اپنا وقت ہنس خوشی سے گزارے۔ اسی کی عزت ہوئی ہے۔

ناچے سامن دیکھے دھولی۔ (۱) شل، اٹنا زمانہ۔

ناخدا۔ (۱) ناخ، (۲) ف، (۳) مذ، (۴) طاح، جہازمان، جہاز کا کپتان۔ (۲) رہنا۔

ناخدائی۔ (۱) ناخ، (۲) ای، (۳) ف، (۴) مٹ، (۵) رہبری، رہنمائی، (۶) جہاز رانی۔

ناخن۔ (۱) مذ، (۲) انگلیوں کے سروں کی ہڈی، (۳) چو پاؤں کے گھرا، (۴) پرنڈوں اور درندوں کے پنجوں کے اوپر کی ہڈی۔

ناخن بندی۔ (۱) مٹ، (۲) ملازمت، نوکری، (۳) علاقہ، تعلقہ، (۴) مدد معاش، حد خرچ۔

ناخن بھر۔ (۱) صفت، ذرا سا، لیل مقدار میں۔

ناخن پر قربان ہونا۔ (۱) محاورہ، بہت حقارت سے دیکھنا۔

ناخن پر لکھا ہونا۔ (۱) محاورہ، خوب یاد کرنا۔

ناخن تھیر۔ (۱) مذ، (۲) جس سے نتھیں سلیمتی اور مسائل حل ہوتے ہیں۔

ناخن تراش۔ (۱) مذ، (۲) وہ آکر جس سے ناخن کاٹتے ہیں۔ نہرنی، نہرنا۔

ناخن سے گوشت جدا ہونا۔ (۱) محاورہ، اپن کا چھوٹ جانا، رشتہ داروں کا جدا ہونا۔

ناخن سے کھنکا۔ (۱) محاورہ، کاغذ پر ناخن سے حروف و الفاظ بنانا۔

ناخن سے ماس جدا نہیں ہوتا۔ (۱) شل، اپنے کسی حال میں خیر نہیں کرتے۔

ناخن کے جھگڑا جلد ختم ہو جاتا ہے۔

ناخن شمشیر۔ (۱) مذ، (۲) تلوار کی دھار۔

ناخن کاڑنا۔ (۱) محاورہ، (۲) ناخن چھوڑنا، اختیار جانا۔

ناخن کرنا۔ (۱) محاورہ، (۲) ناخن چھیننا، (۳) نقشہ حنا، اختیار ہونا۔

ناخن گھستا۔ (۱) محاورہ، جس سے زیادہ کرکشی کرنا۔

ناخن گیر۔ (۱) مذ، (۲) دیکھنے ناخن تراش۔

ناخن لینا۔ (۱) محاورہ، (۲) پوش میں آنا، (۳) ناخن تراشنا، (۴) گھوڑے کا ٹھوک کھانا۔

ناخن (ناخنوں) میں بڑے ہیں۔ (۱) شل، ناخن کے میل کی طرح ہیں۔ کچھ حقیقت نہیں رکھتے۔

ناخن نہیں گر گئے ہیں۔ (۱) محاورہ، ہم تندرست ہیں کسی کا اسان نہیں لینا چاہتے۔

ناخن نیلے ہونا۔ (۱) محاورہ، مرنے کی علامت ظاہر ہونا۔ زہر کے آخر سے

ناخو۔ (۱) مذ، (۲) بیلوں کی ناک کی رسی، (۳) آقا، مالک، (۴) خاندنہ۔ (۵) جوگیوں کا لقب، (۶) چاہ، بہارا۔

ناختضا۔ (۱) مذ، (۲) محاورہ، (۳) سوراخ کرنا، چھیدنا، (۴) میل کے تھنے میں رسی ڈالنا، (۵) قابو کرنا، بس میں کرنا، (۶) شامل کرنا، بھانسا۔

ناقی۔ (۱) مذ، (۲) نواسا۔

ناٹ۔ (۱) مذ، (۲) شہیر، کلاسی، (۳) لٹھ، ستون، (۴) ناچنا دم، تماشا۔

ناٹل۔ (۱) مذ، (۲) ناٹ۔

ناٹ کا بچہ تو قلا بازی ہی کرے گا۔ (۱) شل، جو جس کام کے قابل ہو وہی کرتا ہے۔

ناٹا۔ (۱) صفت، (۲) ٹھکن، بڑا، (۳) چھوٹے قد کا، (۴) شریر، (۵) بیسل، جو ابھی سدھایا نہ گیا ہو۔

ناٹاپن۔ (۱) مذ، (۲) قد کا چھوٹا ہونا۔

ناٹا سب سے ناٹا۔ (۱) شل، پستہ قد آدمی مضبوط ہوتا ہے۔

ناٹک۔ (۱) ناٹک، (۲) ناچنے والا، (۳) تماشا کرنے والا، بہرہویا، ایکٹر، (۴) کھیل، جھیل، ڈرامہ۔

ناٹک رچانا۔ (۱) محاورہ، سو اٹک رچانا۔

ناٹک شال۔ (۱) مذ، (۲) ناچنے والے والا۔

ناٹک شالا۔ (۱) مذ، (۲) ناچ گھر، (۳) سینا گھر، (۴) تھیٹر گھر۔

ناٹکی۔ (۱) مٹ، (۲) ناچنے والی عورت، (۳) رقصہ، (۴) ایک قسم کا ناٹک۔

ناٹکیا۔ (۱) ناٹک، یا، (۲) مذ، (۳) سوانگی، بھربیا، ایکٹر۔

ناٹم گار۔ (۱) ناٹم گار، (۲) جھٹ، (۳) معزز شخص۔

ناٹنا۔ (۱) مذ، (۲) ناٹ، (۳) جھٹ، (۴) انکار کرنا۔

ناٹھا۔ (۱) صفت، (۲) وہ شخص جس کا کوئی رشتہ دار نہ ہو۔

ناٹھور۔ (۱) صفت، (۲) جس کی کوئی جگہ نہ ہو، بے ٹھکانہ، بے حضور۔

ناٹھنا۔ (۱) ناٹھ جانا، (۲) مٹ، (۳) جھگڑنا، بھاگ جانا۔

ناٹھر۔ (۱) مذ، (۲) شکر کھنے والا، عبادت نویس، معذور نگار۔

ناج۔ (۱) مذ، (۲) انانج کا گھٹ، غنہ دانہ۔

ناج پانی۔ (۱) مذ، (۲) کھانے پینے کا سامان۔

ناج کی سوچ اگر برسے اسوچ۔ (۱) شل، اسوچ کے بیٹے میں بارش ہو جانے تو فصل بہت اچھی ہوتی ہے۔

ناجو۔ (۱) مٹ، (۲) ناز پروردہ، لاڈلی۔

ناچی۔ (۱) صفت، (۲) نہات پایا ہوا، گناہ معاف کیا ہوا، معذور۔

ناچ۔ (۱) مذ، (۲) رقص، (۳) آہنگ پارادج کے مطابق ہم کے اعضاء کی جالیاتی حرکت، (۴) خوشی میں اچھل کودنا۔

ناچ دکھانا۔ (۱) محاورہ، کسی کے سامنے ناچنا یا رقص کرنا۔

ناچ رنگ۔ (۱) مذ، (۲) ناچنا اور گانا۔

ناچ گانا۔ (۱) مذ، (۲) ناچ گانا۔

ناچ گھر۔ (۱) مذ، (۲) وہ مکان جس میں ناچ ہوتا ہو، تماشا گاہ۔

ناچ (تھاوینا) نچانا۔ (۱) محاورہ، حیران و پریشان کرنا، سنا، (۲) دق کرنا، (۳) ہیرا پھیری کرنا، (۴) دوڑ دوڑ چل کرنا۔

ناراین - ناراین (س۔ ا۔ مذ) ۱۱، قدیم (۲)، ہمیشہ رہنے والا۔ خدا۔
(۳) وشنو کا لقب۔

ناراین تیل - (س۔ ا۔ مذ) ۱۱، ایک قسم کا روغن جو بڑیوں سے نکالا جاتا ہے
(۲) مومیائی۔

ناراینی - (ناراینی۔ فی۔ مذ) ۱، مٹھی۔ درگا دیوی۔

ناریل - (ناریل۔ فن۔ ا۔ مذ) ناریل کھوپڑی۔

ناریل دریائی - (ناریل۔ فن۔ ا۔ مذ) سمندر کے کنارے آگے والا ناریل۔ ایک دو۔

نارو - (نارو۔ فن۔ ا۔ مذ) پستو جو کتوں کو پڑھاتے ہیں (۲) کجوس۔ تیل۔

نارول - (نارول۔ فن۔ ا۔ مذ) ناریل۔

نارول (NORMAL) - (نارول۔ فن۔ ا۔ مذ) (۱) ایک صفت ٹھیک۔ درست۔ مناسب
کے مطابق۔

نارول اسکول - تعلیم کے اصول سکھانے والا مدرسہ۔ پڑھانے کی تعلیم دینے
والا مدرسہ۔

نارنج - (نارنج۔ فن۔ ا۔ مذ) نارنگ کا معرب۔ سنگترہ۔

نارنجی - (نارنجی۔ فن۔ ا۔ مذ) (۱) صفت (۲) نارنگ کا (۳) سرخ مائل ترس۔

نارنجی - (نارنجی۔ فن۔ ا۔ مذ) چھوٹا سنگترہ۔

نارو نارو - (نارو۔ مذ۔ ا۔ مذ) ایک بیماری جس میں انسان کے بدن سے
تاگا سا نکلتا ہے۔ ہنرو۔

ناری - (ناری۔ فن۔ ا۔ مذ) (۱) عورت (۲) بیوی (۳) استری۔

ناری - (ناری۔ فن۔ ا۔ مذ) (۱) صفت (۲) منسوب آگ کا بنا ہوا چھتی۔ دوزخی۔

ناریل - (ناریل۔ فن۔ ا۔ مذ) (۱) کھوپڑی۔ گری۔ (۲) ناریل کا درخت۔
(۳) حقہ جو کھولے ناریل میں درخ کر کے بناتے ہیں (۴) ایک
قسم کی آتش بازی۔

نارڑ - (نارڑ۔ فن۔ ا۔ مذ) (۱) شش۔ بیض (۲) گردن (۳) پناہ۔

نارڑی - (نارڑی۔ فن۔ ا۔ مذ) (۱) شرم سے گرد بھگانا۔ سر بھگانا۔

نارڑا - (نارڑا۔ فن۔ ا۔ مذ) (۱) ازار بند (۲) کچا زرد یا سرخ رنگ کا سوت۔

نارڑا باندھنا - (نارڑا۔ فن۔ ا۔ مذ) (۱) عورت کے لیے روغن۔ قبر یا امام باغے
میں نارڑا باندھنا۔

نارڑا چھوٹ کرنا - (نارڑا۔ فن۔ ا۔ مذ) (۱) پیشاب کرنا۔ موتنا۔

نارڑا کھلنا - (نارڑا۔ فن۔ ا۔ مذ) (۱) ازار بند کھلنا (۲) جماع ہونا۔ ترنا ہونا۔

نارڑا کھولنا - (نارڑا۔ فن۔ ا۔ مذ) (۱) ازار بند کھولنا (۲) جماع کرنا۔ زنا کرنا۔

نارڑے کا سچا - (نارڑے۔ فن۔ ا۔ مذ) (۱) حرام کاری سے پرہیز کرنے والا۔

نارڑی - (نارڑی۔ فن۔ ا۔ مذ) (۱) اڑے کی شاخ یا پھٹی (۲) بدن کا کوئی نالی دار
عضو۔ نس۔ بیض۔ (۳) بندوق کی نالی۔ (۴) انتڑی (۵) چھوٹا زخم
(۶) گھڑی (۷) ایک قسم کی آتش بازی۔

نارڑی چھوٹنا - (نارڑی۔ فن۔ ا۔ مذ) (۱) بیض نہ چلنا۔ بیض کا حرکت نہ
کرنا (۲) سکتا ہو جانا۔ (۳) مر جانا۔ دم نکل جانا۔ (۴) کسی صدمے
سے سست ہو جانا۔

نارڑی دیکھنا - (نارڑی۔ فن۔ ا۔ مذ) (۱) خبر لینا۔ بیض دیکھنا

نارڑی سے روک ملنا ہے - (نارڑی۔ فن۔ ا۔ مذ) (۱) بیض سے مرض معلوم ہوتا ہے
چیز

ناخن کا نٹلا ہو جانا۔

ناخنوں میں لکھ رکھنا - (ناخنوں۔ فن۔ ا۔ مذ) (۱) کتیا (خیال میں رکھنا۔ یاد رکھنا۔

ناخنوں میں ہونا - (ناخنوں۔ فن۔ ا۔ مذ) (۱) محاورہ) چالاکوں اور شرارتوں سے خوب واقف ہونا۔

ناختہ - (ناختہ۔ فن۔ ا۔ مذ) (۱) مضراب۔ ستار بجانے کا مڑا ہوا تار (۲)
آنکھ کی ایک بیماری جس میں سفیدی مائل گوشت آنکھ کے گوشے میں پیدا
ہو جاتا ہے (۳) گھڑوں کی آنکھ کے سرخ ڈورے۔

ناخون - (ناخون۔ فن۔ ا۔ مذ) ناخن۔

ناخونہ - (ناخونہ۔ فن۔ ا۔ مذ) دیکھنے ناخنہ۔

ناد - (ناد۔ فن۔ ا۔ مذ) (۱) دعوت۔ عزیمت (۲) بلا۔ (۳) منادی (۴) ڈپائی۔

ناد علی - (ناد علی۔ فن۔ ا۔ مذ) (۱) لفظی معنی علی کو ملا دینا یا ان سے مدد طلب کرو (۲) ایک
دعا (۳) وہ پتھر جس پر دعائے ناد علی کندہ ہوتی ہے۔

ناد - (ناد۔ فن۔ ا۔ مذ) (۱) آواز۔ صدا۔ گونج۔ شور (۲) گانا۔

ناد بجانا - (ناد بجانا۔ فن۔ ا۔ مذ) (۱) سینک کی پونجی بجانا۔ سرنگھا پھونکنا۔

ناد کرنا - (ناد کرنا۔ فن۔ ا۔ مذ) (۱) گانا۔ (۲) شیر کا گرجنا۔

ناد - (ناد۔ فن۔ ا۔ مذ) (۱) شل۔ ماند۔

نادور - (نادور۔ فن۔ ا۔ مذ) (۱) کم باب۔ (۲) عمده۔ تحفہ عجیب۔ جمع۔

نادورات - (نادورات۔ فن۔ ا۔ مذ) نادور۔

نادوریاٹ - (نادوریاٹ۔ فن۔ ا۔ مذ) ایک قسم کا کپڑا جو بڑے عرض کا ہوتا ہے۔

نادور نشاہی - (نادور نشاہی۔ فن۔ ا۔ مذ) (۱) صفت (۲) نادشاہ کے وقت جیسی بد انتظامی ظلم۔ اندھی۔

نادور کار - (نادور کار۔ فن۔ ا۔ مذ) (۱) نادورہ کا رکھنا۔ (۲) وہ جس سے عجیب و غریب کام
سرزد ہوں۔

نادورہ - (نادورہ۔ فن۔ ا۔ مذ) (۱) صفت (۲) کم باب۔ عجیب۔ اولھا۔ عجوبہ۔

نادوری - (نادوری۔ فن۔ ا۔ مذ) (۱) صفت (۲) نادور کا۔ نادور سے منسوب (۳)
ایک قسم کی صدی۔

نادوری چڑھانا - (نادوری۔ فن۔ ا۔ مذ) (۱) عورت میں شرم ناک مات دینا۔

نادوری حکم - (نادوری۔ فن۔ ا۔ مذ) (۱) سخت اور جاہلانہ حکم

نادوم - (نادوم۔ فن۔ ا۔ مذ) (۱) صفت (۲) شرمندہ پیشیمان۔ جمل۔ شرمسار۔ جمع نادومین۔

نادھنا - (نادھنا۔ فن۔ ا۔ مذ) (۱) (۲) بیوں کو جوتنا۔ یا جوڑنا۔ (۳) شروع کرنا۔
(۴) غلام بنانا۔

نادیا - (نادیا۔ فن۔ ا۔ مذ) (۱) وہ میل جس کو کوئی معنوی زیادہ ہو۔

نار - (نار۔ فن۔ ا۔ مذ) (۱) صفت (۲) عورت۔ بیوی۔

نار - (نار۔ فن۔ ا۔ مذ) (۱) نار کا مخف۔ مرکبات میں جیسے گنار۔

نارپستان - (نارپستان۔ فن۔ ا۔ مذ) (۱) انجمن لڑکیوں کی چھتیاں ابھی لگی ہوئی نہ ہوں
(۲) انجمن لڑکیوں کی چھتیاں۔

نار - (نار۔ فن۔ ا۔ مذ) (۱) صفت (۲) عورت۔ بیوی۔

نار غلیل - (نار غلیل۔ فن۔ ا۔ مذ) (۱) وہ آگ جس میں کافروں نے حضرت ابراہیم کو پھینک
دیا تھا اور وہ خدا کی قدرت سے گلزار بن گئی تھی۔

نار سقر - (نار سقر۔ فن۔ ا۔ مذ) (۱) صفت (۲) عورت۔ بیوی۔

نار سعیر - (نار سعیر۔ فن۔ ا۔ مذ) (۱) صفت (۲) عورت۔ بیوی۔

نار - (نار۔ فن۔ ا۔ مذ) (۱) صفت (۲) عورت۔ بیوی۔

نازک جگہ (ن۔ ا۔ مٹ) (۱) بدن کا وہ مقام یا عضو جس پر چوٹ لگنے سے آدمی کی مہلت کا اندیشہ ہو۔

نازک خیال۔ (ن۔ مٹ) عمدہ خیالات والا۔ عالی دماغ۔ عالی خیال۔

نازک خیالی۔ (ن۔ ا۔ مٹ) عمدہ خیالات کا ہونا۔

نازک دماغ۔ (ن۔ ا۔ مٹ) (۱) مغرور (۲) بد دماغ۔ بد مزاج۔ چوڑھڑا۔ تنگ مزاج (۳) زود رنج۔

نازک دماغی۔ (ن۔ ا۔ مٹ) (۱) خود بینی۔ مغرور (۲) چوڑھڑا۔ تنگ مزاجی۔ بد دماغی۔

نازک طبع۔ (ن۔ مٹ) نازک مزاج۔

نازک طبعی۔ نازک مزاجی۔

نازک کام۔ (ن۔ ا۔ مٹ) باریک کام۔ وہ کام جو پائیدار نہ ہو۔

نازک مزاج۔ (ن۔ مٹ) تنگ مزاج۔ چوڑھڑا۔ زود رنج۔

نازک مزاجی۔ (ن۔ ا۔ مٹ) تنگ مزاجی۔ چوڑھڑا۔

نازک (مسئلہ) معاملہ۔ (ن۔ ا۔ مٹ) مشکل امر۔ دقیق مسئلہ۔ اہم معاملہ۔

نازک وقت۔ (ن۔ ا۔ مٹ) مشکل زمانہ۔

نازکی۔ (ن۔ ا۔ مٹ) (۱) نراکت۔ ملائمت (۲) نرمی (۳) خوبی (۴) عمدگی (۵) تنگ مزاجی (۶) نفاس۔ لطافت۔

نازل۔ (ن۔ ا۔ مٹ) (۱) اترنے والا۔ نیچے آنے والا۔ وارد ہونے والا۔ گزرنے والا۔

نازل کرنا۔ (ن۔ مٹ) (۱) اترنا۔ وارد کرنا۔

نازل ہونا۔ (ن۔ مٹ) (۱) اترنا۔ وارد ہونا۔ نیچے آنا۔ آسمان سے اترنا۔

نازندہ۔ (ن۔ مٹ) ناز کرنے والا۔ غر کرنے والا۔

نازنین۔ (ن۔ ن۔ مٹ) (۱) دل فریب۔ دل ربا (۲) نازک اندام۔ نازک ادارہ (۳) خوبصورت۔ خوش وضع۔ نازو (۴) اسے فریفتہ کرنے والی خوش

ادا۔ جمع نازنیناں۔

نازوں کا پالا۔ (ن۔ مٹ) لاڈ پیار سے پرورش کیا ہوا۔

نازی۔ (NAZI)۔ (ن۔ ا۔ مٹ) (۱) نازک۔ (۲) نازکی کا لفظ۔

نازیت۔ (ن۔ ا۔ مٹ) (۱) نازک۔ (۲) نازکی کا لفظ۔ (۳) نازک اندام۔ (۴) نازکی کا لفظ۔

ناس۔ (ن۔ ا۔ مٹ) (۱) نازک۔ (۲) نازکی کا لفظ۔ (۳) نازک اندام۔ (۴) نازکی کا لفظ۔

ناسدانی۔ (ن۔ مٹ) (۱) نازکی کا لفظ۔ (۲) نازک اندام۔ (۳) نازکی کا لفظ۔

ناس لینا۔ (ن۔ مٹ) (۱) نازکی کا لفظ۔ (۲) نازک اندام۔ (۳) نازکی کا لفظ۔

ناس۔ (ن۔ مٹ) (۱) نازکی کا لفظ۔ (۲) نازک اندام۔ (۳) نازکی کا لفظ۔

ناس کرنا۔ (ن۔ مٹ) (۱) نازکی کا لفظ۔ (۲) نازک اندام۔ (۳) نازکی کا لفظ۔

ناس کرنا۔ (ن۔ مٹ) (۱) نازکی کا لفظ۔ (۲) نازک اندام۔ (۳) نازکی کا لفظ۔

ناس کرنا۔ (ن۔ مٹ) (۱) نازکی کا لفظ۔ (۲) نازک اندام۔ (۳) نازکی کا لفظ۔

کسی کوئی نہ کوئی وسیلہ مل جاتا ہے۔

ناڑیا۔ (ن۔ ا۔ مٹ) (۱) ناڑیا۔ (۲) ناڑیا۔ (۳) ناڑیا۔ (۴) ناڑیا۔

ناڑ۔ (ن۔ ا۔ مٹ) (۱) ناڑ۔ (۲) ناڑ۔ (۳) ناڑ۔ (۴) ناڑ۔

ناڑاٹھانا۔ (ن۔ ا۔ مٹ) (۱) ناڑاٹھانا۔ (۲) ناڑاٹھانا۔ (۳) ناڑاٹھانا۔

ناڑ برداری کرنا۔

ناڑ باری۔ (ن۔ ا۔ مٹ) (۱) ناڑ باری۔ (۲) ناڑ باری۔ (۳) ناڑ باری۔

ناڑ بردار۔ (ن۔ مٹ) (۱) ناڑ بردار۔ (۲) ناڑ بردار۔ (۳) ناڑ بردار۔

ناڑ برداری۔ (ن۔ ا۔ مٹ) (۱) ناڑ برداری۔ (۲) ناڑ برداری۔ (۳) ناڑ برداری۔

ناڑ پروردہ۔ (ن۔ مٹ) (۱) ناڑ پروردہ۔ (۲) ناڑ پروردہ۔ (۳) ناڑ پروردہ۔

ناڑ پیشہ۔ (ن۔ مٹ) (۱) ناڑ پیشہ۔ (۲) ناڑ پیشہ۔ (۳) ناڑ پیشہ۔

ناڑ سے چلنا۔ (ن۔ مٹ) (۱) ناڑ سے چلنا۔ (۲) ناڑ سے چلنا۔ (۳) ناڑ سے چلنا۔

ناڑ تازوں کا پالا۔ (ن۔ مٹ) (۱) ناڑ تازوں کا پالا۔ (۲) ناڑ تازوں کا پالا۔

ناڑ کرنا۔ (ن۔ ا۔ مٹ) (۱) ناڑ کرنا۔ (۲) ناڑ کرنا۔ (۳) ناڑ کرنا۔

ناڑ کرنا۔

ناڑ میں آنا۔ (ن۔ مٹ) (۱) ناڑ میں آنا۔ (۲) ناڑ میں آنا۔ (۳) ناڑ میں آنا۔

ناڑ نخرہ۔ (ن۔ ا۔ مٹ) (۱) ناڑ نخرہ۔ (۲) ناڑ نخرہ۔ (۳) ناڑ نخرہ۔

ناڑ واد۔ (ن۔ ا۔ مٹ) (۱) ناڑ واد۔ (۲) ناڑ واد۔ (۳) ناڑ واد۔

ناڑ و نعمت میں چلنا۔ (ن۔ مٹ) (۱) ناڑ و نعمت میں چلنا۔ (۲) ناڑ و نعمت میں چلنا۔

ناڑ و نیاز۔ (ن۔ ا۔ مٹ) (۱) ناڑ و نیاز۔ (۲) ناڑ و نیاز۔ (۳) ناڑ و نیاز۔

ناڑ و نخرہ۔

ناڑ ہونا۔ (ن۔ مٹ) (۱) ناڑ ہونا۔ (۲) ناڑ ہونا۔ (۳) ناڑ ہونا۔

ناڑاں۔ (ن۔ ا۔ مٹ) (۱) ناڑاں۔ (۲) ناڑاں۔ (۳) ناڑاں۔

ناڑاں ہونا۔ (ن۔ مٹ) (۱) ناڑاں ہونا۔ (۲) ناڑاں ہونا۔ (۳) ناڑاں ہونا۔

ناڑوں۔ (ن۔ ا۔ مٹ) (۱) ناڑوں۔ (۲) ناڑوں۔ (۳) ناڑوں۔

ناڑش۔ (ن۔ ا۔ مٹ) (۱) ناڑش۔ (۲) ناڑش۔ (۳) ناڑش۔

ناڑش ہونا۔ (ن۔ مٹ) (۱) ناڑش ہونا۔ (۲) ناڑش ہونا۔ (۳) ناڑش ہونا۔

ناڑک۔ (ن۔ ا۔ مٹ) (۱) ناڑک۔ (۲) ناڑک۔ (۳) ناڑک۔

ناڑک۔ (ن۔ ا۔ مٹ) (۱) ناڑک۔ (۲) ناڑک۔ (۳) ناڑک۔

ناڑک۔ (ن۔ ا۔ مٹ) (۱) ناڑک۔ (۲) ناڑک۔ (۳) ناڑک۔

ناڑک۔ (ن۔ ا۔ مٹ) (۱) ناڑک۔ (۲) ناڑک۔ (۳) ناڑک۔

ناڑک۔ (ن۔ ا۔ مٹ) (۱) ناڑک۔ (۲) ناڑک۔ (۳) ناڑک۔

ناڑک۔ (ن۔ ا۔ مٹ) (۱) ناڑک۔ (۲) ناڑک۔ (۳) ناڑک۔

ناطبق - (ع۔ ۱۰۔ مذ) ۱۱) بولنے والا۔ گو بار ۲۲) صاحب عقل (۳) مستحکم۔ مضبوط۔
(۴) دوسرے کو عاجز اور خاموش کر دینے والا۔

ناطبقہ - (نا۔ بط۔ قد) (ع۔ صفت) ۱۱) بولنے کی قوت۔ طاقت گو بانی۔
ناطبقہ بند کر دینا - (۱۔ محاورہ) بولنے کی طاقت بند کر دینا - (۲) لاجواب کر
دینا۔ تنگ کرنا۔

ناظر - (ع۔ ۱۰۔ مذ) ۱) دیکھنے والا (۲) نگہبان۔ محافظ (۳) محروں کا افسر۔ سپہ
محرم (۴) میر سامان (۵) خواجہ سرا۔

ناظرہ - (نا۔ ظ۔ ذہ) (ع۔ ۱۔ صفت) ۱) دیکھنے کی قوت (۲) دیکھ کر پڑھنا۔

ناظرہ خیال - وہ جو حافظ قرآن تو نہ ہو مگر دیکھ کر پڑھ سکتا ہو۔

ناظرہ پڑھنا۔ کلام پاک دیکھ کر پڑھنا۔

ناظرین - (نا۔ ظ۔ ین) (ع۔ ۱۰۔ مذ) ناظر کی جمع - (۱) دیکھنے والے (۲) پڑھنے والے
مطالعہ کرنے والے۔

ناظر - (ع۔ ۱۰۔ صفت) ۱) پردے والا۔ بڑی ہنساتے والا (۲) انتظام کرنے والا۔
انتظم کارکن۔ سربراہ (۳) نظم کئے والا۔ شاعر (۴) سیکرٹری (۵) گورنر۔ سربراہ
جمع افظا۔ ناظران۔

ناظم تعلیم - (ع۔ ۱۰۔ مذ) وہ افسر جو تعلیم کو انتظم ہو۔ ڈائریکٹر تعلیم۔

ناظرہ - (نا۔ ظور۔ ہ) (ع۔ صفت) ۱) محبوبہ (۲) مانوں کا سردار۔

ناظم - (ع۔ ۱۰۔ مذ) نرم۔ نازک (۲) آسان۔ نرم مزاج۔ (۳) خیر کا
ایک قلعہ۔

ناغورہ - (ع۔ ۱۰۔ مذ) ۱) پیک یا ہوا پکٹی - (۲) وہ رنگ جس سے خون بہتا ہو (۳)
پانی کا کھڑا بہتین۔

ناغول - (نا۔ غول) (ع۔ ۱۔ صفت) ۱) چھوٹی گوٹھری جو زینے کے نیچے بنتا ہے۔
ناغہ - (ناغہ) (ع۔ صفت) ۱) خالی بیکار (۲) تعطیل۔ غیر حاضری۔

ناغہ کرنا - (ع۔ ۱۰۔ محاورہ) تعطیل کرنا۔ غیر حاضری۔

ناغہ ہونا - (ع۔ ۱۰۔ محاورہ) غیر حاضری یا تعطیل ہونا۔

ناغہ نویس - (ع۔ ۱۰۔ مذ) عہدہ دار جو ملازموں کی حاضری لیتا اور غیر حاضری
درج کرتا ہے۔

ناف - (ع۔ ۱۰۔ صفت) ۱) پیٹ کے درمیان وہ سوراخ جہاں رحم مادر میں
بچے کی آؤٹل جڑھی ہوتی ہے - (۲) وسیلہ۔ درمیان - بیچل فرج -
مرکز۔

ناف ارض - (ع۔ ۱۰۔ صفت) ۱) زمیں کا مرکز۔ کعبہ شریف۔ مکہ معظمہ۔

ناف آلا - پیٹ تنگ - (ع۔ ۱۰۔ صفت)

ناف ٹالنا - ناف ٹل جانا - (ع۔ ۱۰۔ محاورہ) ناف کا بے جگہ ہوجانا۔ دھن ٹلنا۔
ناف زمین - (ع۔ ۱۰۔ صفت) دیکھیے ناف ارض۔

ناف سنب - (ع۔ ۱۰۔ صفت) آؤٹل رات۔ رات کا درمیان۔

نافذ - (نا۔ فذ) (ع۔ صفت) ۱) جاری ہونے والا - (۲) جاری۔ موثر۔ لاگو۔ نافذ
ہونے والا۔

نافذ کرنا - (ع۔ ۱۰۔ محاورہ) جاری کرنا۔ صادر کرنا۔

نافذہ - (نا۔ فذ) (ع۔ صفت) جاری شدہ۔

نافر - (ع۔ صفت) نفرت کرنے والا۔ کبھی کبھار والا (۲) جھگڑنے والا۔

ناسا - (ع۔ ۱۰۔ مذ) ۱) بڑی تاک - (۲) ایک قسم کی چھنی جو تاک میں
ہوتی ہے۔

ناسپاتی - ناشپاتی - ناس، ناش، پاتی، (ع۔ ۱۰۔ مؤنث) سیب کی قسم کا مگر اس
سے کم درج کا ایک پھل۔

ناس پال - (ناس، پال) (ع۔ ۱۰۔ مذ) ۱) انار کا پھلکا (۲) کچا انار - (۳) ایک
قسم کی آتش بازی۔

ناسپالی رنگ - (ا۔ ۱۰۔ مذ) زردی مائل سبز رنگ سواری رنگ - انار
کے پھلکے کا رنگ۔

ناشک - (ناس، شک) (ع۔ صفت) منکر۔ بے دین۔ طرد۔

ناسخ - (نا۔ سح) (ع۔ صفت) ۱) کھنڈے والا۔ کاتب (۲) مٹانے والا۔ منسوخ کرنے
والا (۳) شیخ امام بخش لکھنوی کا تخلص۔

ناسک - (نا۔ سک) (ع۔ ۱۰۔ صفت) دیوار۔

ناسک - (نا۔ سک) (ع۔ ۱۰۔ مذ) ۱) خدا پرست۔ عبادت گزار - (۲) نیک۔
باعصمت۔

ناسک - (نا۔ سک) (ع۔ ۱۰۔ صفت) ناس کا (ع۔ ۱۰۔ صفت) ناس کی سونڈ۔

ناسوت - (نا۔ سوت) (ع۔ ۱۰۔ مذ) ۱) عالم اجسام - دنیا - (۲) شریعت
ظاہری عبادت۔

ناسور - (نا۔ سور) (ع۔ ۱۰۔ مذ) وہ زخم جو ہمیشہ رستا رہتا ہے۔ اور چھانچین
ہوتا (۲) جسم میں گہرا سوراخ۔

ناسور بھرنا - (ع۔ ۱۰۔ محاورہ) پڑانے زخم کا اچھا ہونا۔

ناسور پڑنا - (ع۔ ۱۰۔ محاورہ) ۱) ہمیشہ جاری رہنے والا زخم ہونا (۲) بہت
ایذا یا تکلیف پہنچنا۔

ناسور ڈالنا - (ع۔ ۱۰۔ محاورہ) ۱) زخم ڈالنا۔ گھاؤ ڈالنا (۲) سچ پہنچانا۔ تکلیف دینا۔
ناسی - (نا۔ سی) (ع۔ ۱۰۔ صفت) ناس کرنے والا۔

ناشپاتی - (ع۔ ۱۰۔ صفت) دیکھیے ناسپاتی یا ناشپاتی

ناشانی - (ناش، تانی) (ع۔ ۱۰۔ مذ) ۱) ہناری۔ صبح کا تھوڑا سا کھانا - (۲) خالی
پیٹ۔ بھوکا۔

ناشانی کرنا - (ع۔ ۱۰۔ محاورہ) ہناری کرنا۔ صبح کا کھانا تناول کرنا۔

ناشر - (ع۔ ۱۰۔ مذ) نشر و اشاعت کرنا والا۔ پبلشر۔ کتابوں کو چھاپ کر بیچنے
والا (۲) بکھرنے والا۔ فاش کرنے والا۔

ناشرین - (نا۔ ش۔ ین) (ع۔ ۱۰۔ مذ) ۱) ناشر کی جمع (۲) اشاعت کرنے والے۔

ناستی - (ع۔ ۱۰۔ مذ) ۱) پیدا ہونے والا (۲) شروع ہونے والا - (۳) ظاہر ہونے
والا۔ ظاہر۔ واضح۔

ناصب - (ع۔ ۱۰۔ مذ) کھڑا کرنے والا۔ قائم کرنے والا۔ نصب کرنے والا۔

ناصح - (ع۔ ۱۰۔ مذ) نصیحت کرنے والا۔ صلاح کار۔ جمع ناصحین۔

ناصر - (ع۔ ۱۰۔ مذ) حد کرنے والا۔ معاون۔ حامی۔ جمع - انصار۔

ناصیبہ - (نا۔ صیب) (ع۔ ۱۰۔ مذ) ۱) پیشانی کے بال (۲) ماتھا۔ پیشانی۔

ناصیبہ سار - (ع۔ ۱۰۔ صفت) پیشانی رکڑنے والا (۲) عاجز۔ چارہ۔ ناچیز۔

ناصیبہ سائی (فرسائی) - (ع۔ ۱۰۔ صفت) ماتھا رکڑنا۔ خوشامد۔

ناصیبہ فرسادی - (ع۔ ۱۰۔ صفت) ماتھا رکڑنے والا۔

ناک کا کٹنا۔ (۱۔ محاورہ) بے عزت کرنا۔ ذلیل کرنا۔ بدنام کرنا۔ (۲) کسی تیز دھار آئے یا دانتوں سے ناک کاٹ دینا۔ مرد بیدار عورتوں کی ناک کاٹ دیتے ہیں۔

ناک کا کچوا۔ ناک کا چڑھا۔ (۱۔ مذ) وہ ریزش جو ناک میں جم کر سخت ہو جاتی ہے۔

ناک کا کان کاٹنا۔ (۱۔ محاورہ) ۱۱۔ نکلتا اور پوجا بنانا، ۱۲۔ ذلیل و خوار کرنا۔

ناک کٹنا۔ (۱۔ محاورہ) بدنام ہونا۔ رسوا ہونا۔

ناک کٹ جانا۔ (۱۔ محاورہ) عزت و ابر و خاک میں مل جانا۔

ناک کٹی۔ (۱۔ معنی) بدنامی۔ رسوائی۔ بے عزتی۔

ناک کٹی ہونا۔ (۱۔ محاورہ) رسوائی ہونا۔

ناک کٹے۔ (۱۔ بددعا) بدنام ہو۔ رسوا ہو۔ اس کی عزت جائے۔

ناک کی پھینکی۔ (۱۔ معنی) ناک کی ٹوک۔

ناک کی سیدھ۔ (۱۔ معنی) ٹھیک سامنے۔ سیدھے خط میں۔ بخوبی مستقیم۔

ناک کی کیل۔ (۱۔ معنی) وہ کیل جو عورتیں ناک میں لگاتی ہیں۔

ناک کے پھیرے سے بیان کرنا۔ (۱۔ محاورہ) بات کو طوالت سے بیان کرنا۔

ناک کے رستے نکل جانا۔ (۱۔ محاورہ) سختی کر کر ہی ہو جانا۔

ناک کھسنی۔ (۱۔ معنی) عاجزی۔ منت سماجت کرنا۔

ناک میں ہلونا۔ (۱۔ محاورہ) منمنانا۔

ناک میں تیر دینا۔ (۱۔ محاورہ) بہت تنگ کرنا۔

ناک میں دم آنا۔ (۱۔ محاورہ) بہت تنگ ہونا۔ سخت پریشان ہونا۔

ناک میں دم آنے لگنا۔ (۱۔ محاورہ) جی گھبرانے لگنا۔ دم اٹھنے لگنا۔

ناک میں دم کرنا۔ (۱۔ محاورہ) ستانا۔ دق کرنا۔ حیران کرنا۔

ناک نقشہ۔ (۱۔ معنی) چہرے کے خدو خال۔

ناک ندی جانا۔ (۱۔ محاورہ) سخت بکڑ بکڑ ہونا۔

ناک نہ رہنا۔ (۱۔ محاورہ) ۱۱۔ غیرت جاتی رہنا، ۱۲۔ بے عزت ہو جانا۔

ناک نہ کان نتھہ ہالیوں کا ارمان۔ (۱۔ مثل) حیثیت کچھ نہیں بگر حوصلے اڑنے۔

ناک والا۔ (۱۔ معنی) ۱۱۔ عزت والا۔ غیرت والا۔

ناک ہو تو نکتھیا سو جائے۔ (۱۔ مثل) ۱۱۔ عملی چیز ہوئی چاہیے۔ فروعات لہدی میں بھی مہیا ہو سکتی ہیں

ناک آؤٹ (Knockout) (۱۔ معنی) ۱۔ ناک کے ہارنے میں حریف کو مار کر کھڑے سے باہر نکال دینا۔

ناکوں ناک۔ (۱۔ معنی) لبالب۔ لبریز۔ ہنسا منہ۔

ناکوں ناک بھرو دینا۔ (۱۔ محاورہ) لبالب بھرو دینا۔

ناکا۔ (۱۔ معنی) ۱۱۔ سڑک کا اخیر۔ راستے کی حد۔ (۲) مہرا۔ سہرا۔ (۳) براہ۔ راستہ۔ (۴) گلی کو جسے کارڈ واڑہ (۵) شہر کا دروازہ (۶) چنگی کی چوکی (۷) سوئی کا پیچید (۸) حد۔ کنارہ (۹) پانی کے گذرنے کی جگہ (۱۰) پولیس کا چھوٹا تھانا یا چوکی (۱۱) سڑک یا روڑے میں داخل ہونے کی جگہ (۱۲) ایک دریائی جانور۔ مگرچہ (۱۳) مگرچہ کی قسم کا ایک دریائی جانور۔

ناک کا بند کرنا۔ (۱۔ محاورہ) حد بندی کرنا (۲) راستہ روکنا۔ راستے میں پیرہ بٹھانا۔ پانی کے بہاؤ کو روکنا۔

ناک کا بند ہونا۔ (۱۔ راستہ ٹک جانا۔ جبراً کرنا۔

ناک کا بندھی۔ (۱۔ معنی) حد بندی۔ (۲) راستہ روکنا۔

ناک کا روکنا۔ (۱۔ محاورہ) راستے پر پیرہ بٹھانا۔ راستہ روکنا۔

ناک کا سنبھالنا۔ (۱۔ محاورہ) راستہ روکنا۔ راستہ پر پیرہ ہونا۔

ناک کے وار۔ (۱۔ معنی) ناک کا دار۔ شوراخ دار۔

ناک کے میں سے نکالنا۔ (۱۔ محاورہ) ۱۱۔ سوتی کے شوراخ میں سے نکالنا (۲) دق کرنا۔ ستانا (۳) مجبور کرنا (۴) سیدھا کرنا۔ درست کرنا۔

ناک ک۔ (۱۔ معنی) نکاح کرنے والا۔

ناک کڑا۔ (۱۔ معنی) ٹوک (۲) ہار۔ (۳) بڑی ناک۔

ناک کڑ۔ (۱۔ معنی) مگرچہ۔ گھر ٹال۔ بہنگ۔

ناک کھنا۔ (۱۔ معنی) ناک کھنا۔

ناک کس۔ (۱۔ معنی) ۱۱۔ سانپ (۲) چپن وار سیاہ سانپ۔

ناک کیل۔ (۱۔ معنی) ۱۱۔ پان کی کیل۔ (۲) خیال ہے کہ سانپ اس کے نیچے رہتا ہے اس لیے اسے ناک کیل کہتے ہیں۔

ناک کھچی۔ (۱۔ معنی) ہندوؤں کا ایک تہوار۔ جو پانچ سادھنوں کو ہوتا ہے۔

ناک کھینسی۔ (۱۔ معنی) ایک قسم جس کے بچوں کی شکل سانپ کے پھن کی طرح ہوتی ہے۔

ناک دانت۔ (۱۔ معنی) ہاتھی دانت۔

ناک دون۔ (۱۔ معنی) ایک لہو جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اس کی کڑی گھر میں ہو تو سانپ نہیں آتا۔

ناک کھلانا۔ (۱۔ محاورہ) جان جو کھوں کا کام کرنا (۲) خطرے میں پڑنا (۳) بد مزاج حاکم کی طاقت میں ہونا۔

ناک گ۔ (۱۔ معنی) ۱۱۔ ایک قوم جو آسام کے بہاری علاقوں میں رہتی ہے (۲) اس فرقہ کا ایک فرد (۳) ہندوؤں کا جو جتنے رہتے ہیں۔

ناک گ۔ (۱۔ معنی) ۱۱۔ قصبہ یا شہر کے متعلق (۲) شہری یا شہر کارہنے والا۔ (۳) چالاک۔

ناک گ۔ (۱۔ معنی) ۱۱۔ بوشیار (۲) بھارتی بھارتیوں کی ایک قوم (۳) بڑی آبادی۔ (۴) ذق۔ (۱۔ معنی) ۱۱۔ ایک گھاس

ناک گریل۔ (۱۔ معنی) ۱۱۔ پان کی کیل

ناک گریل۔ (۱۔ معنی) ۱۱۔ ہندوؤں کی قوم کا پان (۲) گدھ اور بڑا پان۔

ناک گریل۔ (۱۔ معنی) ۱۱۔ ایک قسم کی خوشبودار گھاس کی جڑ۔

ناک گری۔ (۱۔ معنی) ۱۱۔ گری (۲) گری (۳) ہندی زبان کا رسم الخط۔ (۴) چالاک عودت (۵) ایک لہو۔

ناک گری۔ (۱۔ معنی) ۱۱۔ قلعہ۔ (۲) جوئے کی رسی جس سے پیل جوڑتے ہیں۔

ناک گری۔ (۱۔ معنی) ۱۱۔ ناک کی مادہ (۲) گدھ کی ہال بھونری۔

ناک گری۔ (۱۔ معنی) ۱۱۔ ناک کا گھاس۔

ناک گری۔ (۱۔ معنی) ۱۱۔ بڑے سانپ کی مادہ (۲) حسین عورت۔

ناک گری۔ (۱۔ معنی) ۱۱۔ شہر ناگور واقع مارواڑ سے منسوب ہے۔

ناک گری۔ (۱۔ معنی) ۱۱۔ بہت مشہور ہیں (۲) ایک قسم کا جوتا۔

ناگتسر - دناگے - ستر (۱-۵) - مذکر (ایک قسم کا خوشبودار پھول اور اس کا پودا)

نال - (۱-۵) - مذ (۱) قریب - نزدیک (۲) وہ آنت جو کہ رحم مادر میں بچے کے پیٹ سے چلی ہوئی ہے - اور جسے پیدائش پر کاٹ کے مٹا کر دیتے ہیں (۳) بندوق یا پیٹے کی نالی (۴) دم لوبے یا پتھر کا لہجے پہلوان ورزش کے وقت اٹھاتے ہیں (۵) (ق) ساتھ - مانند -

نال اٹھانا - (۱) عمارت پر لکڑی کا بنا ہوا کدوہ - برائے ورزش اٹھانا -

نال کاٹنا - (۱) مصلحہ مرکب یا بچہ کی پیدائش کے وقت ناف کی نالی کاٹنا -

نال کشائی - (۱) مٹا دینا (۲) مٹا دینا اور جو نال کاٹنے پر دیا جاتا ہے -

نال کرنا - (۱) عمارت (۲) بچہ کی ناف سے نال کاٹ کر زمین میں دیا دینا - دعوے اور استحقاق ہونا (۳) مٹلن ہونا (۴) زراعت ہونا (۵) مسکن ہونا -

نال نکالنا - (۱) عمارت (۲) ہر دوں پر مالک قرار دینا (۳) حصہ الگ کرنا -

نال - (۱) وہ درخت جو تم ترانے وقت نکلتا ہے (۲) نئے - فرس جوا نذر سے خالی ہو -

نالہ - (۱) مذ (۲) رنگینی گنڈے دار صوت (۳) انار بند (۴) چھوٹی ندی - چھوٹا دریا - برساتی نہر -

نالان - (۱) نال - (۲) صفت (۳) روتا ہوا - نال کرتا ہوا (۴) شاکہ فریادی -

داؤد لاکرنے والا (۵) عاجز - تنگ -

نالش - (۱) نال - (۲) صفت (۳) رونا گریہ و زاری (۴) فریاد دہانی شکایت (۵) دعوے - دعوے کے سامنے چارہ چوٹی -

نالش استر داؤد دعوے - (۱) صفت (۲) دعویٰ واپس لینے کی عرضی -

نالش استقر ارتقی - (۱) صفت (۲) حق پر قرار کرنے کی نالش -

نالش داغ دینا - (۱) عمارت (۲) عدالت میں دعوے دائر کرنا (۳) فریاد کرنا -

نالش منقش - (۱) صفت (۲) وہ نالش جس میں منقش ہونے کے باعث نام حصول ڈگری عدالت کے رسوم ادا نہ کرنا پڑیں -

نالشا نالشتی - (۱) مذ (۲) صفت (۳) باہمی جھگڑنے کی وجہ سے ایک دوسرے پر دعوے دائر کرنا -

نالشتی - (۱) نال - (۲) صفت (۳) دعویدار (۴) فریادی - شکایت کرنے والا -

نالکی - (۱) نال - (۲) صفت (۳) ایک قسم کی کھلی پانکی - تام جھام -

نالشا - (۱) نال - (۲) صفت (۳) رونا پینا - فریاد کرنا -

نالہ - (۱) مذ (۲) فریاد - داؤد (۳) شور - غل - غصاں -

نالہ ولی - (۱) مذ (۲) آہ - آہ سرد -

نالہ سر کرنا - (۱) عمارت (۲) فریاد کرنا (۳) کھینچنا -

نالہ سوزناں - (۱) صفت (۲) جلا دینے والی آہ -

نالہ شکر - (۱) صفت (۲) رات کے وقت کی آہ و فغاں

نالہ کرنا - (۱) مصلحہ مرکب (۲) فریاد کرنا (۳) آہ و فغاں کرنا -

نالہ گس و فرسا - (۱) صفت (۲) فریاد کرنے والا -

نالہ کھینچنا - (۱) عمارت (۲) فغاں کرنا -

نالہ گز - (۱) صفت (۲) فغاں و لیکار کرنے والا -

نالہ گرم - (۱) صفت (۲) وہ نالہ جو کمال جوش سے نکلے -

نالہ مرغ سحر - (۱) مذ (۲) صبح کے وقت مرغ کی ہانگ -

نالہ نکالنا - (۱) عمارت (۲) فریاد کرنا

نالہ دینا - (۱) صفت (۲) رونا پینا - آہ و زاری -

نالی - (۱) مذ (۲) نوش (۳) موسیٰ - پانی نکلنے کا راستہ -

نام - (۱) مذ (۲) وہ لفظ جس سے کوئی شخص یا چیز پہچانی جائے (۳)

اسم - (۱) نون (۲) لقب - کیفیت - خطاب - عرف - تخلص - (۳) شہرت -

ناموسی - (۱) حضرت - (۲) آبرو - (۳) نسل - اولاد - خاندان - (۴) شہرت -

الزام - (۱) یادگار - (۲) متعلق - مرکبات کے آخر میں استعمال ہونے والے

جیسے گناہ - بدنام - بڑا سا نام -

نام آسمان پر ہونا - (۱) عمارت (۲) بڑی شہرت ہونا - بڑی نیک نامی ہونا -

نام کور - (۱) صفت (۲) مشہور - معروف -

نام آوری - (۱) صفت (۲) شہرت -

نام رٹھ جانا - (۱) اٹھنا - (۲) عمارت (۳) نام نہ رہنا - نام مٹ جانا -

نام کھینچنا - (۱) عمارت (۲) بڑائی کی وجہ سے مشہور ہونا - بدنامی ہونا - رسوائی ہونا -

نام اڑ جانا - (۱) عمارت (۲) نشان تک باقی نہ رہنا - نیست و نابود ہوجانا -

نام بازار تک جانا - (۱) عمارت (۲) لوگوں میں بدنامی ہونا - رسوائی ہونا -

نام باقی نہ رہنا - (۱) عمارت (۲) مرنے کے بعد نام لیا جانا (۳) شہرت رہ جانا (۴)

یادگار باقی نہ رہنا - (۱) عمارت (۲) نام کے سوا کچھ باقی نہ رہنا -

نام تمانا - (۱) عمارت (۲) نام کا بھر کرنا (۳) اپنی شخصیت کو متعارف کرانا -

نام بدنام کرنا - (۱) عمارت (۲) رسوا ہونا - بدنام ہونا (۳) عیب لگانا - الزام دھرنا -

نام بڑوہ - (۱) عمارت (۲) وہ جس کا اور نام لیا جا چکا ہے -

نام بڑا اور درخشن چھوٹے - (۱) مثل (۲) جتنا نام ہے اتنا کام نہیں - نام کے مطابق سامان نہیں -

نام بڑا اونچا کالوں سے بوجھا - (۱) مثل (۲) خاندان کی بدنامی کا باعث ہے -

نام بڑا ہونا - (۱) عمارت (۲) کسی اچھی بات کے لیے مشہور ہونا - (۳) اعلیٰ خاندان ہونا -

نام بڑا داؤد - (۱) مثل (۲) نیک نامی دولت سے بہتر ہے -

نام کینا - (۱) عمارت (۲) نام کی شہرت سے چیز کینا - نام کی قدر ہونا -

نام رنگاڑنا - (۱) عمارت (۲) نام بدنام کرنا - (۳) نام کو اصل حالت پر نہ رکھنا -

نام بلند بہ از بام بلند - (۱) مثل (۲) نیک نامی عالی شان عمارتوں والی جائیداد سے اور مال و دولت سے بہتر ہے

نام بنام - (۱) صفت (۲) نام دار - ہر ایک کو ایک ایک کو نام لے لے کر

نام بھی نہ لینا - (۱) عمارت (۲) سخت نفرت کرنا - بہت بیزار ہونا (۳) مطلق

یاد نہ رہنا -

نام بھی نہیں - (۱) عمارت (۲) نام نہیں کچھ نہیں - ذرا بھی نہیں -

نام پانا - (۱) عمارت (۲) مشہور ہونا - نیک نامی حاصل کرنا - شہرت ہونا

نام پر - (۱) تابع فعل (۲) نام کے لیے فیصل میں واسطے (۳) شہرت کے لیے (۴)

کسی کے نام کی تعظیم کے لیے -

نام پر بیٹھنا - (۱) عمارت (۲) بھروسا کرنا - متوکل رہنا (۳) نام کا پاس اور لحاظ

کر کے مستقل رہنا -

نام پر پاپوش (بیزار ہارنا۔ ۱۶۔ محاورہ) کسی سے بے حد عزیز ہونا۔
 نام پر جاننا۔ ۱۷۔ محاورہ (رعایت کرنا۔ لانا کرنا۔
 نام پر جان دینا۔ ۱۷۔ محاورہ) شہرت حاصل کرنے کی بے حد کوشش کرنا۔
 نام پر گرفت آنا۔ ۱۷۔ محاورہ) بدنام ہونا۔ رُسا ہونا۔
 نام پر کھوٹا لانا پھینکنا۔ ۱۷۔ محاورہ) چور سلوم کرنے کے لیے دو آدمی کھور سے یا
 لٹے کو انگلیوں سے پکڑتے ہیں اور مشتہر شخص کے نام کی پچیاں لٹے
 میں ڈالتے ہیں۔ اور کچھ پکڑتے ہیں کہبتے ہیں کہ جب مزے کے نام کی پچی لال
 جاتی ہے تو کھوٹا یا لٹا لٹا لٹا ہوتا ہے۔
 نام پر گالیاں پڑنا۔ ۱۷۔ محاورہ) ۱۱ آدمی جس کا ذکر آتے ہیں لوگ گالیاں دینے
 لگیں۔ ۱۷۔ نام لے کر گالیاں دینا۔
 نام پر لکھنا۔ ۱۷۔ محاورہ) کسی کی خاطر کوئی چیز خیرات کر کے لٹا دینا۔
 نام پر (بھٹنا، مرننا۔ ۱۷۔ محاورہ) شہرت کے لیے بے حد کوشش کرنا۔ شہرت کا
 بہت زیادہ طالب ہونا
 نام پر ہونا۔ ۱۷۔ محاورہ) کسی کے متعلق ہونا کسی کی حکایت میں ہونا۔ نامزد ہونا۔
 نام پر لکھنا۔ ۱۷۔ محاورہ) کسی نام سے مشہور ہونا۔ عزت یا لقب ہو جانا
 نام پر لکھنا۔ ۱۷۔ محاورہ) نام لے کر آواز دینا۔ ۱۷۔ نام سے بلانا۔ ۱۷۔ محاورہ) نام
 نام پر لکھنا۔ ۱۷۔ محاورہ) خواہ مخواہ نام لینا۔
 نام پر لکھنا۔ ۱۷۔ محاورہ) شہرت حاصل کرنا۔
 نام پر لکھنا۔ ۱۷۔ محاورہ) کسی کا کھانسیں محاورہ۔ ۱۷۔ مثل، دوسرے کے نام سے اپنا کام نکالنا۔
 نام پر پیش کرنا۔ ۱۷۔ محاورہ) کسی کام یا مہم پر کیلئے کسی کے نام کو تجویز کرنا۔
 نام پر پیش کرنا۔ ۱۷۔ محاورہ) نام پیش کرنا، بچے کا نام رکھنا۔
 نام پر کاروا دار نہ ہونا۔ ۱۷۔ محاورہ) بیحد ناراض اور بیزار ہونا۔ نام لینے
 کی بھی اجازت نہ ہونا۔
 نام پر لکھنا۔ ۱۷۔ محاورہ) نام بھی نہ جانتا۔ بالکل نہ جانتا۔
 نام پر لکھنا، ٹھہرنا۔ ۱۷۔ محاورہ) کوئی نام رکھ لینا۔ نام مقرر کر لینا۔
 نام پر لکھنا۔ ۱۷۔ محاورہ) دوبارہ مشہور ہونا۔ شہرت کا کم ہو جانے کے بعد پھر زور ہونا۔
 نام پر لکھنا۔ ۱۷۔ محاورہ) کسی کا ہر وقت ذکر کرنا۔ یاد کرنا۔
 نام پر لکھنا۔ ۱۷۔ محاورہ) بدنام کرنا۔ رُسا کرنا۔
 نام پر لکھنا۔ ۱۷۔ محاورہ) نام لے کر براے نام۔ بہت چھوڑا۔
 نام پر لکھنا، چٹھانا۔ ۱۷۔ محاورہ) نام پر مزے درج ہونا۔ نام دفتر میں لکھنا۔
 نام پر لکھنا۔ ۱۷۔ محاورہ) کسی کی یادگار باقی رہنا۔ نام قائم رہنا۔
 نام پر لکھنا۔ ۱۷۔ محاورہ) شہرت پانا۔
 نام پر لکھنا۔ ۱۷۔ محاورہ) شہرت پانا۔ مشہور ہونا۔
 نام پر لکھنا۔ ۱۷۔ محاورہ) شہرت پر تیرے نام کا ڈوبنا۔ دینا۔ قلمرو کو دینا۔
 نام پر لکھنا۔ ۱۷۔ محاورہ) سخت بدنام ہونے وقت ہو جانا۔
 نام پر لکھنا۔ ۱۷۔ محاورہ) تعلیم و تکریم کے لیے اور خدا کی قسم کی سہانے متعلق
 سے ۱۷۔ برکت اور نذر بد سے محفوظ رہنے کا کلمہ۔ چشم بد دور ماشا اللہ
 ۱۷۔ حسین و آفرین کا کلمہ طنزاً بھی کہا جاتا ہے۔
 نام پر لکھنا۔ ۱۷۔ محاورہ) ہوا میں پھینکنا۔ بددور اچھی کنواری ہے۔
 نام پر لکھنا۔ ۱۷۔ محاورہ) بدنام کرنا۔

نام داخل یا درج ہونا۔ ۱۷۔ محاورہ) لکھنا۔ رُسا وغیرہ میں تحریر کرنا۔
 نام دار۔ (نصف، مشہور نامی۔
 نام دینا سے اڑے۔ (بددعا، مرجائے۔ مٹ جائے۔ کوئی نام
 یوں باقی نہ رہے۔
 نام دھرتا۔ ۱۷۔ محاورہ) ۱۱) عیب لگانا۔ نکتہ چینی کرنا۔ بڑا کھنا۔ ۱۷) قیمت
 مقرر کرنا۔
 نام دینا۔ ۱۷۔ محاورہ) نام رکھنا۔ مشہور کرنا۔
 نام ڈوبنا۔ ۱۷۔ محاورہ) خاندان کو بٹا لگانا۔ بزرگوں کا نام بدنام کرنا۔
 نام ڈوبنا۔ ۱۷۔ محاورہ) رسوائی ہونا۔ بدنامی ہونا۔ عزت جانا۔
 نام رکھنا۔ ۱۷۔ محاورہ) ۱۱) بچے کا کوئی نام تجویز کرنا، بڑا کھنا۔
 نام روشن کرنا، ہونا۔ ۱۷۔ محاورہ) ۱۱) شہرت ہونا، ۱۲) طنز (ا) رُسا ہونا۔
 بدنام ہونا۔
 نام روک لینا۔ ۱۷۔ محاورہ) ترقی وغیرہ کے لیے نام نہ بیچنا۔
 نام تران پر پھرنے۔ ۱۷۔ محاورہ) کسی کا نام ذہنی سے آ کر جانا۔ کسی کا نام پوری
 طرح یاد نہ آنا۔
 نام زور۔ ۱۷۔ صفت) ۱۱) مشہور۔ معروف۔ ۱۲) متیقن۔ مقرر۔ ۱۳) کسی کام کیلئے تجویز
 کیا گیا نام، محبوب لڑکی جس کی منگنی ہو چکی ہو۔
 نام زور کرنا۔ ۱۷۔ محاورہ) ۱۱) کسی کام کے لیے مقرر کرنا۔ متیقن کرنا۔ ۱۲) سب کو
 نام ساکھ۔ ۱۷۔ (تابع فعل) نام کا اعتبار اور شہرت۔
 نام زندہ کرنا۔ ۱۷۔ محاورہ) نام روشن کرنا۔ یاد تازہ کرنا۔
 نام سننے سے روکنے کے لیے ہونا۔ ۱۷۔ محاورہ) کسی سے بہت ڈرنا۔
 نام سے۔ ۱۷۔ (تابع فعل) ۱) نام لے کر نام پر ۱۲) نام کی بدولت ۱۳) نام
 نکلنے سے۔ نام کے ساتھ ۱۴) ہلانے سے۔
 نام سے آشنا ہونا۔ ۱۷۔ محاورہ) معمولی واقفیت ہونا۔
 نام سے جکنا۔ ۱۷۔ محاورہ) کسی چیز کا لینے نام کی وجہ سے کلمہ
 نام سے جھگانا۔ ۱۷۔ محاورہ) سخت غنڈہ ہونا۔ نامک سنا کر اڑا کرنا۔
 نام سے چڑھنا۔ ۱۷۔ محاورہ) کسی سے بہت ڈرنا۔ بیحد خائف ہونا۔
 نام سے چلنا۔ ۱۷۔ محاورہ) اہتمامی دشمنی اور نفرت ہونا
 نام سے چلنا۔ ۱۷۔ محاورہ) کسی کا نام سن کر ناراض ہو جانا۔ سخت نفرت کرنا۔
 نام سے چڑھنا۔ نام سنا پسند نہ کرنا۔
 نام سے دم لکھنا۔ ۱۷۔ محاورہ) بہت ڈرنا۔ بیحد خوف کھانا۔
 نام سے کان پکڑنا۔ ۱۷۔ محاورہ) کسی کی آستادی یا کمال کا قائل ہونا۔
 نام سے کانپنا۔ ۱۷۔ محاورہ) بہت ڈرنا۔ بیحد خائف ہونا۔
 نام سے کانوں پر ہاتھ دھرنا۔ ۱۷۔ محاورہ) بیحد نفرت کرنا۔ سخت بیزار ہونا۔
 نام سے مطلب۔ ۱۷۔ محاورہ) شہرت سے غرض۔
 نام سے نفرت ہونا۔ ۱۷۔ محاورہ) بہت نفرت ہونا۔ نام سے چلنا۔
 نام کا ایک۔ ۱۷۔ صفت) ۱۱) آفت کا پرکالا۔ بہت چالاک ۱۲) ہندی ۱۳) دھبے کا پکنا۔
 نام کا پاس۔ ۱۷۔ صفت) عزت کا خیال۔
 نام کا دشمن ہونا۔ ۱۷۔ محاورہ) بیحد نفرت اور بیزاری ہونا۔
 نام کا رسک جاری ہونا چلنا۔ ۱۷۔ محاورہ) بے حد عزت اور ناموری حاصل

ہونا۔ لوگوں پر دھاک بیٹھنا۔

نام کا لٹی نہ پانا۔ (۱۱۔ محاورہ) یہ تکد میرزا ہونا۔

نام کا وظیفہ۔ (۱۲۔ مذ) کسی کو بہت یاد کرنا۔

نام کرنا۔ (۱۳۔ محاورہ) (۱۱) شہرت حاصل کرنا۔ نیک نامی پیدا کرنا (۱۲) الزام دھرنا

(۱۳) کسی کے ذمے ڈالنا۔ کسی کے لیے مخصوص کرنا۔

نام کندہ کرنا۔ (۱۴۔ محاورہ) نام کھودنا۔

نام کو۔ (۱۵) تابع فعل (بہت کم) ذرا سا۔ برائے نام۔ کہنے کو۔

نام کو آگ لگانا۔ (۱۶۔ محاورہ) نام نہ لینا۔ قریبے جانا

نام کو بٹا روہبا، لگانا۔ (۱۷۔ محاورہ) بدنام کرنا۔ عیب لگانا۔

نام کو مرنا۔ (۱۸۔ محاورہ) نام کے لیے جان دے دینا۔

نام کو نہ چھوڑنا۔ (۱۹۔ محاورہ) (۱۱) سب کچھ لے لینا (۱۲) کچھ باقی نہ چھوڑنا۔ خاتمہ کر

دینا۔ صفایا کرنا۔

نام کو نہ رکھنا۔ (۲۰۔ محاورہ) کچھ نہ رہنے دینا۔ بالکل مٹا دینا۔

نام کو نہ رہنا۔ (۲۱۔ محاورہ) بالکل نہ رہنا۔ کچھ نہ رہنا۔ سب کچھ ختم ہو جانا۔

نام کو نہیں۔ (۲۲۔ محاورہ) بالکل نہیں۔ ذرا بھی نہیں۔

نام کی چیز۔ (۲۳۔ مث) وہ چیز جو کسی کے لیے ملگانی جائے۔ (۲۴) وہ

چیز جو کسی کے لیے مخصوص ہو جائے یا نام زد کر دی جائے۔

نام کی رٹ۔ (۲۵۔ مث) کسی کے نام کا ورد۔ ہر وقت کسی کو یاد کرنا۔

نام کی تربت، بھانا۔ (۲۶۔ محاورہ) اپنے نام کو مشہور کرنا۔

نام کی تیج پڑھنا۔ (۲۷۔ محاورہ) نام رٹے جانا۔ ہر وقت نام لینا۔

نام کے لیے مرنا۔ (۲۸۔ محاورہ) نام وری کی خواہش میں جان و مال کی پرواہ نہ

کرنا۔ نام وری کی تیج خواہش ہونا۔

نام لگانا۔ نام لگنا یا نام لگ جانا۔ (۲۹۔ محاورہ) (۱۱) الزام عائد کرنا۔ کوئی

قصور ذمہ لگنا (۲۲) تہمت لگانا۔

نام للہ۔ (۳۰۔ مذ) اللہ کے نام پر۔

نام کے بیٹھنا۔ (۳۱۔ محاورہ) بے سوچے کسی پر الزام عائد کرنا

نام لے دینا۔ (۳۲۔ محاورہ) (۱۱) کسی پر الزام دینا۔ (۲۲) کسی قصور میں کسی

کا نام بتا دینا۔

نام لے کر۔ (۳۳) تابع فعل (نام سے) نام کی بدولت۔

نام لے کر مانگ کھانا۔ (۳۴۔ محاورہ) کسی بزرگ کے نام پر خیرات مانگ

کر گنڈا کرنا۔

نام لینا۔ (۳۵۔ محاورہ) (۱۱) نام زبان پر لانا (۲۲) نام مٹانا۔ نام چننا (۳۳) تعریف کرنا

گن گنا (۳۴) کسی کا ذکر کرنا (۳۵) واسطہ دینا۔

نام لیوا۔ (۳۶۔ صفت) (۱) یادگار۔ (۲) بیٹا۔ وارث۔ (۳) یاد کرنے والا۔ نام

پر فخر کرنے والا۔

نام لیوا نہ پانی دوا۔ (۳۷) (۱) مش) سب مرے کوئی باقی نہ رہا۔

نام میرا گاؤں تیرا۔ (۳۸) (۱) مش) کمائے کوئی اڑائے کوئی۔ خود لے لینا اور

دوسرے کو کچھ نہ دینا۔

نام ناجی۔ (۳۹۔ مذ) مشہور و معروف نام۔ عزت کا کلمہ۔

نام نکالنا۔ (۴۰۔ محاورہ) (۱) شہرت پانا (۲) (طنزاً) بدنامی مول لینا۔ رسوائی

ہونا (۳) کسی مقدس کتاب سے اخذ کر کے بچہ کا نام رکھا جانا (۴) عمل کے ذریعے چور کا نام دریافت کرنا۔

نام نکل جانا۔ (۴۱۔ محاورہ) مشہور ہو جانا (۲) نام بڑ جانا۔

نام نمود۔ (ف) (۱۔ مذ) عزت۔ طیب ثاب۔ ظاہری ٹھسا طھ۔ نمائش دکھاوا۔

نام نہاد۔ (ف) (صفت) (۱) موسوم نامزد (۲) گنتے کو۔ نام کو۔ برائے نام۔

نام نہ رہنا۔ (۴۲۔ محاورہ) مٹ جانا۔ یادگار باقی نہ رہنا۔

نام نہ کو۔ (۴۳۔ بول چال) ذکر نہ کرو۔ نفرت کے موقع پر کہتے ہیں۔

نام نہ لینا۔ (۴۴۔ محاورہ) سمخت، میرزا ہونا۔ (۲) بالکل کوئی کام نہ کرنا۔ نام زبان

پر نہ لانا۔

نام نہ ہونا۔ (۴۵۔ محاورہ) (۱) وجود نہ ہونا (۲) شہرت نہ ہونا۔

نام نہیں۔ (۴۶۔ محاورہ) پتہ نہیں۔ سراغ نہیں۔ بے نشان ہے (۲) وجود

نہیں (۳) تذکرہ نہیں۔

نام نیک رفتگاں ضائع مکن، تانا بشد نام نیکت، یا سیدار۔

(ف) (مث) جو لوگ مر چکے ہیں۔ ان کے نیک ناموں کو ضائع نہ کرنا کہ تیرا

نام بھی نیکی سے زندہ رہے۔

نام ڈر۔ (ف) (صفت) نام آدرا کمخف، نامی۔ مشہور و معروف۔

نام وری۔ (ف) (۱۔ مث) شہرت۔ نیک نامی نام آدرا کمخف۔

نام و نشان۔ (۴۷۔ مذ) (۱) آما پتہ۔ مٹھور ٹھکانہ (۲) یادگار۔ آثار۔

نام و نشان باقی نہ رہنا۔ (۴۸۔ محاورہ) نیست و نابود ہو جانا۔ فنا ہو جانا۔

مٹ جانا۔

نام و ننگ۔ (ف) (۱۔ مذ) عزت۔ آبرو۔ ناموس۔

نام ہونا۔ (۴۹۔ محاورہ) اسم ہونا، لقب ہونا (۲) شہرت ہونا (۳) تہمت لگانا (۴)

ذمے پڑنا۔ سر پڑنا (۵) شرکت کرنا۔

نام ہی نام ہے۔ (۵۰۔ محاورہ) حقیقت کچھ نہیں صرف کہنے کو ہے۔

نام ہے۔ (۵۱۔ محاورہ) شہرت ہے (۲) برائے نام ہے (۳) فی الحقیقت

ہے۔ دراصل یہ ہے۔

نام نہ۔ (۵۲۔ مذ) (۱) مذ) کیا جو ہندو ماتھے پر لگاتے ہیں۔

ناموس۔ (۵۳۔ مذ) (۱) ع۔ (۲) ع۔ (۳) ع۔ (۴) ع۔ (۵) ع۔ (۶) ع۔ (۷) ع۔ (۸) ع۔ (۹) ع۔ (۱۰) ع۔ (۱۱) ع۔ (۱۲) ع۔ (۱۳) ع۔ (۱۴) ع۔ (۱۵) ع۔ (۱۶) ع۔ (۱۷) ع۔ (۱۸) ع۔ (۱۹) ع۔ (۲۰) ع۔ (۲۱) ع۔ (۲۲) ع۔ (۲۳) ع۔ (۲۴) ع۔ (۲۵) ع۔ (۲۶) ع۔ (۲۷) ع۔ (۲۸) ع۔ (۲۹) ع۔ (۳۰) ع۔ (۳۱) ع۔ (۳۲) ع۔ (۳۳) ع۔ (۳۴) ع۔ (۳۵) ع۔ (۳۶) ع۔ (۳۷) ع۔ (۳۸) ع۔ (۳۹) ع۔ (۴۰) ع۔ (۴۱) ع۔ (۴۲) ع۔ (۴۳) ع۔ (۴۴) ع۔ (۴۵) ع۔ (۴۶) ع۔ (۴۷) ع۔ (۴۸) ع۔ (۴۹) ع۔ (۵۰) ع۔ (۵۱) ع۔ (۵۲) ع۔ (۵۳) ع۔ (۵۴) ع۔ (۵۵) ع۔ (۵۶) ع۔ (۵۷) ع۔ (۵۸) ع۔ (۵۹) ع۔ (۶۰) ع۔ (۶۱) ع۔ (۶۲) ع۔ (۶۳) ع۔ (۶۴) ع۔ (۶۵) ع۔ (۶۶) ع۔ (۶۷) ع۔ (۶۸) ع۔ (۶۹) ع۔ (۷۰) ع۔ (۷۱) ع۔ (۷۲) ع۔ (۷۳) ع۔ (۷۴) ع۔ (۷۵) ع۔ (۷۶) ع۔ (۷۷) ع۔ (۷۸) ع۔ (۷۹) ع۔ (۸۰) ع۔ (۸۱) ع۔ (۸۲) ع۔ (۸۳) ع۔ (۸۴) ع۔ (۸۵) ع۔ (۸۶) ع۔ (۸۷) ع۔ (۸۸) ع۔ (۸۹) ع۔ (۹۰) ع۔ (۹۱) ع۔ (۹۲) ع۔ (۹۳) ع۔ (۹۴) ع۔ (۹۵) ع۔ (۹۶) ع۔ (۹۷) ع۔ (۹۸) ع۔ (۹۹) ع۔ (۱۰۰) ع۔

ناموس اکبر۔ (ع) (۱۔ صفت) (۱) حضرت جبرائیل کا لقب۔ (۲) شہریت۔

قاعدہ۔ دستور بزرگ۔

ناموس لگا کرنا۔ (۵۶۔ محاورہ) بے آبروی کرنا، عزت دوا پر بروت آنا۔

ناموسسی۔ (۵۷۔ مذ) (۱) ع۔ (۲) ع۔ (۳) ع۔ (۴) ع۔ (۵) ع۔ (۶) ع۔ (۷) ع۔ (۸) ع۔ (۹) ع۔ (۱۰) ع۔ (۱۱) ع۔ (۱۲) ع۔ (۱۳) ع۔ (۱۴) ع۔ (۱۵) ع۔ (۱۶) ع۔ (۱۷) ع۔ (۱۸) ع۔ (۱۹) ع۔ (۲۰) ع۔ (۲۱) ع۔ (۲۲) ع۔ (۲۳) ع۔ (۲۴) ع۔ (۲۵) ع۔ (۲۶) ع۔ (۲۷) ع۔ (۲۸) ع۔ (۲۹) ع۔ (۳۰) ع۔ (۳۱) ع۔ (۳۲) ع۔ (۳۳) ع۔ (۳۴) ع۔ (۳۵) ع۔ (۳۶) ع۔ (۳۷) ع۔ (۳۸) ع۔ (۳۹) ع۔ (۴۰) ع۔ (۴۱) ع۔ (۴۲) ع۔ (۴۳) ع۔ (۴۴) ع۔ (۴۵) ع۔ (۴۶) ع۔ (۴۷) ع۔ (۴۸) ع۔ (۴۹) ع۔ (۵۰) ع۔ (۵۱) ع۔ (۵۲) ع۔ (۵۳) ع۔ (۵۴) ع۔ (۵۵) ع۔ (۵۶) ع۔ (۵۷) ع۔ (۵۸) ع۔ (۵۹) ع۔ (۶۰) ع۔ (۶۱) ع۔ (۶۲) ع۔ (۶۳) ع۔ (۶۴) ع۔ (۶۵) ع۔ (۶۶) ع۔ (۶۷) ع۔ (۶۸) ع۔ (۶۹) ع۔ (۷۰) ع۔ (۷۱) ع۔ (۷۲) ع۔ (۷۳) ع۔ (۷۴) ع۔ (۷۵) ع۔ (۷۶) ع۔ (۷۷) ع۔ (۷۸) ع۔ (۷۹) ع۔ (۸۰) ع۔ (۸۱) ع۔ (۸۲) ع۔ (۸۳) ع۔ (۸۴) ع۔ (۸۵) ع۔ (۸۶) ع۔ (۸۷) ع۔ (۸۸) ع۔ (۸۹) ع۔ (۹۰) ع۔ (۹۱) ع۔ (۹۲) ع۔ (۹۳) ع۔ (۹۴) ع۔ (۹۵) ع۔ (۹۶) ع۔ (۹۷) ع۔ (۹۸) ع۔ (۹۹) ع۔ (۱۰۰) ع۔

لحاظ۔

نامہ۔ (۵۸۔ مذ) (۱) مذ) خط۔ چھٹی۔ تحریر (۲) رسالہ۔ کتاب (۳) دفتر۔

رجسٹر (۴) ہر کتاب میں جیسے اقرار نامہ۔

نامہ اعمال۔ (ع) (۱) مذ) وہ کتاب جس میں اعمال درج ہوں۔ وہ کتاب جس پر

تعمیر ہی ہر ایک کے اعمال لکھتے ہیں۔

نامہ اعمال دھویا جانا۔ (۵۹۔ محاورہ) گناہوں کا بخشا جانا۔

نامہ اعمال سیاہ ہونا۔ (۱۔ محاورہ) بیحد گناہ گار ہونا۔ اعمال نامہ پر بہت سے کتابوں کا کھانا۔

نامہ بر۔ ذ۔ ف۔ صفت [جمعی رساں] قاصد۔

نامہ بُری۔ (ع۔ ف۔ ا۔ مٹ) خط یا پیام کے جانے کا کام۔

نامہ شوق۔ (ن۔ ا۔ مذ) محبت آمیز خط۔ دوست کا خط۔

نامہ کھلا آنا۔ (۱۰۔ محاورہ) موت کی خبر آنا۔ پہلے دستور تھا کہ موت کی خبر کا خط کھلا بھیجتے تھے۔

نامہ نگار۔ (ف۔ ا۔ مذ) ۱۱۔ خبر نویس۔ خط نویس (۲) اخبار کا نمائندہ یا مضمون نگار۔

نامہ نگار خصوصی۔ (ف۔ ا۔ مذ) وہ اخبار نویس جو کسی خاص معاملہ پر مضمون لکھنے پر متین ہو۔

نامہ و پیام۔ پیغام۔ (ف۔ ا۔ مذ) خط و کتابت۔ سلام پیام۔

نامی۔ (ع۔ ا۔ مذ) ۱۱۔ بڑھنے والا۔ نشوونما پانے والا۔ (ف۔ ا۔ مشہور۔ نام والا۔ نام کا۔

نامی چور۔ (۱۰۔ مذ) مشہور چور۔ بڑا بھاری بگڑ۔

نامی گرامی۔ (۱۰۔ مذ) بہت مشہور۔ مشہور و معروف۔ نامور۔

نامیہ۔ (ن۔ ا۔ می) ۱۱۔ (ع۔ ا۔ مٹ) بڑھنے کی قوت۔ خوردینے والی قوت۔

نان۔ (ف۔ ا۔ مذ) ۱۱۔ روٹی۔ تھوڑی روٹی۔ موٹی روٹی۔

نان بائی۔ (ف۔ ا۔ مذ) روٹی بکانے والا۔ روٹی بیچنے والا۔

نان یاڈ۔ (ف۔ ا۔ مذ) ۱۱۔ ٹول روٹی (۲) ایک قسم کی خمیری روٹی۔

نان کڑ۔ (ف۔ ا۔ مذ) نان پانی۔ بھٹی مارا۔

نان کھویں۔ (ف۔ ا۔ مذ) ۱۱۔ ٹھوکی روٹی (۲) مجازاً روٹی سوکھی روٹی۔ وال دلیا۔

نان خشک۔ (ف۔ ا۔ مذ) سوکھی روٹی۔ روٹی روٹی۔

نان شطانی۔ (ف۔ ا۔ مٹ) میدہ کی اشکر سے تیار کی ہوئی ایک قسم کی مٹھائی۔

نان خواہ۔ (ف۔ ا۔ مذ) اجوائن۔

نان خورش۔ سائیں۔ گوشت۔ پھل وغیرہ خوردی کے ساتھ کھاتے ہیں۔

نان خورشید۔ (ف۔ ا۔ مذ) قرص خورشید کو بطور استعارہ کہتے ہیں۔

نان فروش۔ (ف۔ ا۔ مذ) روٹی بیچنے والا۔

نان کار۔ (ف۔ ا۔ صفت) وہ زمین جو طازم کو اس کی خدمت کے بدلے میں لڈاکے کے لیے دی جاتی ہے۔

نان کے لیے مرنا۔ (۱۰۔ محاورہ) کھانے پر جان دینا۔ کھانے کو مقدم کرنا۔

نان و نطق۔ (ف۔ ا۔ مذ) روٹی کچرا۔ گزارا۔ خانہ داری کا خرچ۔ بال بچوں کے مصارف۔

نان و نمک۔ (ف۔ ا۔ مذ) معمولی غذا۔ ایسی غذا میں نمک نہ ہو۔

نانا۔ (۱۰۔ مذ) ماں کا باپ۔

نانا دادا۔ (۱۰۔ مذ) ۱۱۔ آباؤ اجداد۔ خاندان کے بزرگ۔ (۲) مجازاً گرو اُستاد نانا کے لکھنے کے کھاوے دادا کا پوتا کہلاوے۔ (۱۰۔ مٹ) خرچ کوئی اچھے نام کسی کا ہو۔

نانہ۔ (۱۰۔ مٹ) بڑا کونڈا۔

ناندا۔ (ن۔ ا۔ مذ) ۱۱۔ مذکر، گھلا۔ (۲) نسلی کرنا۔ (۳) تلاش کرنا۔ (۴) زندگی بسر کرنا۔

رہنا۔ بسنا۔

ناندھنا۔ (۱۰۔ مٹ) شروع کرنا (۲) بیان کرنا (۳) اختیار کرنا (۴) چرنے کو گردش دینا (۵) جالی بننے کا کام شروع کرنا۔

ناندھیا (ناندیا بیل)۔ (۱۰۔ مٹ) نمائش میں جسے جگہ جگہ پھراتے ہیں اور اُسے مالک کا کہا ماننے کی تربیت دی جاتی ہے۔

نانک۔ (۱۰۔ مٹ) ۱۔ مذ اسکے مذہب کے بانی اور پہلے گورو (۲) وہ گھوڑا جس کے جسم پر دودھ تک سفیدی ہو۔

نانک پنتھی۔ (ن۔ ا۔ مذ) ۱۱۔ پن۔ تھی، (۱۰۔ مٹ) گورو نانک کے پیروں کے۔

نانک شاہی۔ (ن۔ ا۔ مذ) ۱۱۔ شاہی، (۱۰۔ مٹ) فقیروں کا ایک گروہ۔ ایک قسم کا موٹا پیسہ جس کا آب چلنی نہیں ہے۔

نانک ننھا، بولڑھو جیسے ننھی دُوب، پیڑ بڑے گر جائیں گے دُوب خوب کی خوب۔ (۱۰۔ مٹ) اکسری بہتر ہے

نانگا بڑیاں لگا۔ (۱۰۔ مٹ) ۱۱۔ ننگا (۱) ننگا (۲) سادھوؤں کا ایک گروہ جو ننگے بستے ہیں۔

نانگنا۔ (ن۔ ا۔ مٹ) ۱۱۔ گنا۔ (۲) مٹھائی۔

نانگنا۔ (ن۔ ا۔ مٹ) ۱۱۔ گنا۔ (۲) مٹھائی۔ (۳) مٹھائی۔ (۴) مٹھائی۔ (۵) مٹھائی۔ (۶) مٹھائی۔ (۷) مٹھائی۔ (۸) مٹھائی۔ (۹) مٹھائی۔ (۱۰) مٹھائی۔

نار۔ (ف۔ ا۔ مذ) ۱۱۔ نار۔ (۲) نار۔ (۳) نار۔ (۴) نار۔ (۵) نار۔ (۶) نار۔ (۷) نار۔ (۸) نار۔ (۹) نار۔ (۱۰) نار۔

نار۔ (ف۔ ا۔ مذ) ۱۱۔ نار۔ (۲) نار۔ (۳) نار۔ (۴) نار۔ (۵) نار۔ (۶) نار۔ (۷) نار۔ (۸) نار۔ (۹) نار۔ (۱۰) نار۔

نار۔ (ف۔ ا۔ مذ) ۱۱۔ نار۔ (۲) نار۔ (۳) نار۔ (۴) نار۔ (۵) نار۔ (۶) نار۔ (۷) نار۔ (۸) نار۔ (۹) نار۔ (۱۰) نار۔

نار۔ (ف۔ ا۔ مذ) ۱۱۔ نار۔ (۲) نار۔ (۳) نار۔ (۴) نار۔ (۵) نار۔ (۶) نار۔ (۷) نار۔ (۸) نار۔ (۹) نار۔ (۱۰) نار۔

نار۔ (ف۔ ا۔ مذ) ۱۱۔ نار۔ (۲) نار۔ (۳) نار۔ (۴) نار۔ (۵) نار۔ (۶) نار۔ (۷) نار۔ (۸) نار۔ (۹) نار۔ (۱۰) نار۔

نار۔ (ف۔ ا۔ مذ) ۱۱۔ نار۔ (۲) نار۔ (۳) نار۔ (۴) نار۔ (۵) نار۔ (۶) نار۔ (۷) نار۔ (۸) نار۔ (۹) نار۔ (۱۰) نار۔

نار۔ (ف۔ ا۔ مذ) ۱۱۔ نار۔ (۲) نار۔ (۳) نار۔ (۴) نار۔ (۵) نار۔ (۶) نار۔ (۷) نار۔ (۸) نار۔ (۹) نار۔ (۱۰) نار۔

نار۔ (ف۔ ا۔ مذ) ۱۱۔ نار۔ (۲) نار۔ (۳) نار۔ (۴) نار۔ (۵) نار۔ (۶) نار۔ (۷) نار۔ (۸) نار۔ (۹) نار۔ (۱۰) نار۔

نار۔ (ف۔ ا۔ مذ) ۱۱۔ نار۔ (۲) نار۔ (۳) نار۔ (۴) نار۔ (۵) نار۔ (۶) نار۔ (۷) نار۔ (۸) نار۔ (۹) نار۔ (۱۰) نار۔

نار۔ (ف۔ ا۔ مذ) ۱۱۔ نار۔ (۲) نار۔ (۳) نار۔ (۴) نار۔ (۵) نار۔ (۶) نار۔ (۷) نار۔ (۸) نار۔ (۹) نار۔ (۱۰) نار۔

نار۔ (ف۔ ا۔ مذ) ۱۱۔ نار۔ (۲) نار۔ (۳) نار۔ (۴) نار۔ (۵) نار۔ (۶) نار۔ (۷) نار۔ (۸) نار۔ (۹) نار۔ (۱۰) نار۔

نار۔ (ف۔ ا۔ مذ) ۱۱۔ نار۔ (۲) نار۔ (۳) نار۔ (۴) نار۔ (۵) نار۔ (۶) نار۔ (۷) نار۔ (۸) نار۔ (۹) نار۔ (۱۰) نار۔

نار۔ (ف۔ ا۔ مذ) ۱۱۔ نار۔ (۲) نار۔ (۳) نار۔ (۴) نار۔ (۵) نار۔ (۶) نار۔ (۷) نار۔ (۸) نار۔ (۹) نار۔ (۱۰) نار۔

نار۔ (ف۔ ا۔ مذ) ۱۱۔ نار۔ (۲) نار۔ (۳) نار۔ (۴) نار۔ (۵) نار۔ (۶) نار۔ (۷) نار۔ (۸) نار۔ (۹) نار۔ (۱۰) نار۔

نار۔ (ف۔ ا۔ مذ) ۱۱۔ نار۔ (۲) نار۔ (۳) نار۔ (۴) نار۔ (۵) نار۔ (۶) نار۔ (۷) نار۔ (۸) نار۔ (۹) نار۔ (۱۰) نار۔

نار۔ (ف۔ ا۔ مذ) ۱۱۔ نار۔ (۲) نار۔ (۳) نار۔ (۴) نار۔ (۵) نار۔ (۶) نار۔ (۷) نار۔ (۸) نار۔ (۹) نار۔ (۱۰) نار۔

نار۔ (ف۔ ا۔ مذ) ۱۱۔ نار۔ (۲) نار۔ (۳) نار۔ (۴) نار۔ (۵) نار۔ (۶) نار۔ (۷) نار۔ (۸) نار۔ (۹) نار۔ (۱۰) نار۔

نار۔ (ف۔ ا۔ مذ) ۱۱۔ نار۔ (۲) نار۔ (۳) نار۔ (۴) نار۔ (۵) نار۔ (۶) نار۔ (۷) نار۔ (۸) نار۔ (۹) نار۔ (۱۰) نار۔

نار۔ (ف۔ ا۔ مذ) ۱۱۔ نار۔ (۲) نار۔ (۳) نار۔ (۴) نار۔ (۵) نار۔ (۶) نار۔ (۷) نار۔ (۸) نار۔ (۹) نار۔ (۱۰) نار۔

نار۔ (ف۔ ا۔ مذ) ۱۱۔ نار۔ (۲) نار۔ (۳) نار۔ (۴) نار۔ (۵) نار۔ (۶) نار۔ (۷) نار۔ (۸) نار۔ (۹) نار۔ (۱۰) نار۔

نچکان - رن - چان (ھ۔ ۱۔ امت) ہستی - نشیب - آہر - ڈھلان -
نچانا - رن - چانا (۱۲۔ محاورہ) (۱۱) رقص کرنا - بناج کرنا - (۲) تاک میں دم
کرنا - ستانا -

نچڑنا - رن - چڑنا (۱۱) (مص) (۱۱) پکنا - نظرہ نظرہ کرنا (۲) دبانے یا بھینچنے سے
عرق نکلنا (۳) ڈبلا اور کمزور ہوجانا -

نچلا - رنچ - نا (۱۱) (مص) (۱۱) نیچے (۲) خاموش - چپ چاپ - ساکت -
نچلا - بٹھانا - (۱) محاورہ (سکون سے بیٹھنا - شرارت دکھانا -

نچلا رہنا - (۱) محاورہ (انسانیت سے رہنا - شائستگی سے بیٹھنا برکت
ناشائستہ نہ کرنا -

نچلا نہ بیٹھنا - (۱) محاورہ (یک حالت پر قائم نہ رہنا - چپ نہ رہنا - کچھ نہ
کچھ کیے جانا -

نچنا - رنچ - نا (ھ۔ ۱) (مص) (۱) لڑا جانا - کھسٹنا جانا (۲) کپڑے کا پھٹ جانا -
نچنت - رن - چنت (ھ۔ ۱) (مص) (۱) بے فکر - بے پروا - فارغ - مطمئن -

نچنت ہونا - (۱) محاورہ (مطمئن ہونا - سیرفکر ہونا -

نچنیا - رن - چن - یا (ھ۔ ۱) (مص) (۱) ناچنے والا لڑکا - بھانڈا - رقص - زنا زنی
نچوانا - رنچ - نا (۱) (مص) (۱) ناچنے کے لیے آمادہ کرنا -

نچوانی - رنچ - نا (۱) (مص) (۱) ناچنے کی اجرت -

نچوڑ - رن - چوڑ (ھ۔ ۱) (مص) (۱) رس آفرینہ (۲) لب لباب - مست - عطر -
جو ہر (۳) خلاصہ - حاصل - نتیجہ -

نچوڑ لینا - (۱) (مص) مرکب (۱) دبا کر عرق نکال لینا (۲) مفلس بنا دینا (۳) پی
لینا - جس لینا (۴) خشک کر دینا (۵) ڈھلے ہوئے کپڑوں کو دبا کر ان
کا پانی نکال دینا (۶) لاغر کر دینا -

نچوڑنا - رن - چوڑنا (ھ۔ ۱) (مص) (۱) دبانا - سوتنا (۲) دبا کر عرق یا پانی
نکالنا (۳) جس لینا - خون پینا (۴) لاغر کر دینا خشک کر دینا - (۵)
کچھ باقی نہ چھوڑنا - مفلس کر دینا -

نچڑیا - رنچ - بوی - یا (ھ۔ ۱) (مص) (۱) ناچنے والا مرد -
نچھاوڑ - رن - چھاوڑ (ھ۔ ۱) (مص) (۱) ناچار - آہار - وہ نقدی یا جنس جو کسی
کے اوپر سے بطور صدقہ بکھیری جائے

نچھاوڑ کرنا - (۱) محاورہ (صدقہ اتارنا - دارنا - بکھیرنا - نثار کرنا -
نچھتر - رن - چھت (تر) (ھ۔ ۱) (مص) (۱) اس کا حصہ -

نچھتری - رن - چھت - ت - رن (ھ۔ ۱) (مص) (۱) اچھے نچھتر کی پیدائش -
نچھرا گوان خوش نصیب - نیک - مہارک -

نچھل - رن - چھل (ق) (مص) (۱) صاف - خاص -

ن - خ

نخس - (ع - صفت) (۱) نامسا عمد - نامہارک - نامسا آگار - منحوس -
نخس قدم - (ع - صفت) (۱) وہ جس کا آنا منحوس اور نامہارک ثابت ہو -
نخل - (ع - ۱) (مص) (۱) شہد کی مکھی -

نخو - (ع - ۱) - مذکر (۱) طور - طریق - ڈھنگ - راہ - راستہ (۲) وہ علم
جس سے کلمات کو جوڑنا - توڑنا اور ان کا باہمی تعلق معلوم ہو -

نخلوں کا علم - (ھ۔ ۱) (مص) (۱) علم نحو کا ماہر -
نخومی - (ع - ۱) - مذکر (۱) علم نحو کا ماہر -

نخوست - رن - نخوست (ع - ۱) (مص) (۱) بد نصیبی - بد بختی - منحوس ہونا -
نامہارک ہونا - بد شگونئی -

نخوست چھانا - (۱) محاورہ (۱) برا اثر پڑنا - منحوس ہونا -
نخیف - رن - خیف (ع - ۱) (مص) (۱) ڈبلا - پتلا - کمزور - لاغر - ناتواں - ضعیف -

نخ (ق) - (۱) (مص) (۱) کشم کا تار یا سوت بہتنگ کی ڈور (۲) ایک
قسم کا قالین جس پر بڑھتی ہے (۳) کا پتہ کی چوٹی (۴) چند چیزیں -

نخاس - (ع - نخ - خاص) (ع - ۱) (مص) (۱) بازار - منڈی - بازار -
نخاس پر بیٹھنا - (۱) محاورہ (بازار دکھانا - بیچنے کے لیے بازار تھینا -

نخاس چڑھنا - (۱) محاورہ (بازار میں بیٹھنے یا بیٹھنے سے کہنے کے لیے جانا - سوائے عام
ہونا - بیچنے والی ہونا -

نخاس کی کھوڑی - (۱) (مص) (۱) عام بگاڑ کھوڑی (۲) کسی - رنڈی -
فاحشہ - قہرہ -

نخاس والی - (۱) (مص) (۱) بازاری عورت - میوا - رنڈی - کسی -
نخالص - رن - خالص (ق) (مص) (۱) فارغ -

نخالص - رن - خالص (ق) (مص) (۱) جو خاص نہ ہو - ملاوٹ والا (۲)
خالص - ملاوٹ -

نخالص - رعوام (خالص) بے میل - جس میں ملاوٹ نہ ہو
نخچر - (ع - نخ - چر) (ق) (مص) (۱) شکار - صید - شکار کیا ہوا جانور -
نخچر گاہ - (ق) (مص) (۱) شکار گاہ -

نخرا - (ع - نخ - را) (ق) (مص) (۱) عشوہ - عزمہ - ادا - ناز - کرشمہ -
نخرا - (ع - نخ - را) (ق) (مص) (۱) عشوہ - کرشمہ - پر ناز - ناز کرنے والا -

نخرا - (ع - نخ - را) (ق) (مص) (۱) عشوہ - کرشمہ - ناز - ناز کرنے والا -
نخرا بگھارنا - (۱) محاورہ (۱) جو تھپکے کرنا - ناز و انداز دکھانا - اتارنا (۲)
میلہ کرنا - بہانہ کرنا -

نخرا - (ع - نخ - را) (ق) (مص) (۱) عشوہ - کرشمہ -
نخرا نکالنا - (۱) محاورہ (۱) جیسے حوائے کرنا - مثال منقول کرنا -

نخڑے - (ع - نخ - رے) (ق) (مص) (۱) عشوہ - کرشمہ - پر ناز - عفو و عودت -
نخڑے میں آجانا - (۱) محاورہ (۱) عفو و عودت - ادا میں دکھانے لگانا -

نخڑوں دکھانا -

ن - ح

نچاس - رن - حاس (ع - ۱) (مص) (۱) تانبہ - مس -
نچافت - رن - حافت (ع - صفت) (۱) کمزوری - لاغری - دلاہین -

نح - (ع - ۱) (مص) (۱) آؤٹ کا ذبح کرنا (۲) ذبح کرنا - قربانی کرنا -

ن - ڈ

نڈر - (ع - ۱ - ۱۱) بے خوف - دلیر - بہادر - شجاع - جبری (۲) بدلنا - ظ -
نڈر کن - (ع - ۱ - ۱۱) بے خوفی - بے ہائی (۲) دلیری - جرات -
نڈری آنکھیں - (ع - ۱ - ۱۱) دیدہ دلیر آنکھیں - جن آنکھوں میں ڈر نہ ہو -
نڈھال - (ن - ۱) ڈھال (ع - ۱) صفت (ع - ۱) صفت - تھکا ہوا - ضعیف و ناتواں -

ن - ڈ

نڈر - (ع - ۱ - ۱۱) منت - عمدتہ - قربانی - جھینٹ - چڑھاوا (۲) نیاز - خاک
تختہ (۳) اپنے اوپر کوئی چیز واجب کر لینا -
نڈرانا - (ع - ۱ - ۱۱) تختہ - ہدین - جھینٹ - پیش کش -
نڈر کرنا - ہدینا دینا - تختہ دینا - پیشکش کرنا -
نڈر پیش کرنا - (ع - ۱ - ۱۱) نڈر دکھانا - نقدی ہاتھ یا رومال پر رکھ کر وقت
ملاقات کسی حاکم یا رئیس کے رو رو پیش کرنا -
نڈر چڑھانا - (ع - ۱ - ۱۱) محاورہ (ع - ۱ - ۱۱) تقریباً تعزیرے پر کوئی چیز بطور منت چڑھانا -
نڈر دکھانا (ع - ۱ - ۱۱) محاورہ (ع - ۱ - ۱۱) ہاتھ پر نقدی رقم رکھ کر حاکم یا رئیس کے پیش
کرنا - وہ ہاتھ لگا کر چھوڑ دیتے ہیں -
نڈر دینا - (ع - ۱ - ۱۱) محاورہ (ع - ۱ - ۱۱) کسی بڑے کے سامنے کوئی چیز یا نقدی بطور تحفہ پیش
کرنا (۲) رشوت دینا (۳) خاک کرنا -
نڈر کا پنجم چڑھانا - (ع - ۱ - ۱۱) محاورہ (ع - ۱ - ۱۱) منت پوری ہونے پر امام ہارے کے علم
چر چاندی یا سونے کا پنجم چڑھانا -
نڈر کرنا - (ع - ۱ - ۱۱) محاورہ (ع - ۱ - ۱۱) جھینٹ چڑھانا - پیش
کرنا - (ع - ۲) رشوت دینا - پوچھنا (۳) حوالہ کرنا - شہود کرنا - کسی کے
سامنے نقدی پیش کرنا -
نڈر ماننا - (ع - ۱ - ۱۱) محاورہ (ع - ۱ - ۱۱) منت کرنا - کسی بات یا عہد کو اپنے اوپر واجب
کر لینا -
نڈر سے - (ع - ۱ - ۱۱) محاورہ (ع - ۱ - ۱۱) حاضر ہے موجود ہے -
نڈریں گڈرنا - (ع - ۱ - ۱۱) محاورہ (ع - ۱ - ۱۱) حاکم کے سامنے تختہ اور نقدی پیش کرنا -
نڈیر - (ن - ۱) ڈیر - (ع - ۱) نڈر ڈرانے والا - خدا کا خوف دلانے والا - رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لقب -

ن - ر

نڈر - (ع - ۱ - ۱۱) نڈر - مرد - خدا - مادہ کا مقابلہ -
نڈر کا ڈر - نڈر - بیل گائے کا ڈر -
نڈر - (ع - ۱ - ۱۱) نڈر - مرد اور عورت (۲)

نڈر - (ع - ۱ - ۱۱) نڈر - مرد - خدا - مادہ کا مقابلہ -

نڈر - (ع - ۱ - ۱۱) نڈر - مرد - خدا - مادہ کا مقابلہ -

نڈر - (ع - ۱ - ۱۱) نڈر - مرد - خدا - مادہ کا مقابلہ -

نڈر - (ع - ۱ - ۱۱) نڈر - مرد - خدا - مادہ کا مقابلہ -

نڈر - (ع - ۱ - ۱۱) نڈر - مرد - خدا - مادہ کا مقابلہ -

نڈر - (ع - ۱ - ۱۱) نڈر - مرد - خدا - مادہ کا مقابلہ -

نڈر - (ع - ۱ - ۱۱) نڈر - مرد - خدا - مادہ کا مقابلہ -

نڈر - (ع - ۱ - ۱۱) نڈر - مرد - خدا - مادہ کا مقابلہ -

نڈر - (ع - ۱ - ۱۱) نڈر - مرد - خدا - مادہ کا مقابلہ -

نڈر - (ع - ۱ - ۱۱) نڈر - مرد - خدا - مادہ کا مقابلہ -

نڈر - (ع - ۱ - ۱۱) نڈر - مرد - خدا - مادہ کا مقابلہ -

نڈر - (ع - ۱ - ۱۱) نڈر - مرد - خدا - مادہ کا مقابلہ -

نڈر - (ع - ۱ - ۱۱) نڈر - مرد - خدا - مادہ کا مقابلہ -

نڈر - (ع - ۱ - ۱۱) نڈر - مرد - خدا - مادہ کا مقابلہ -

نڈر - (ع - ۱ - ۱۱) نڈر - مرد - خدا - مادہ کا مقابلہ -

نڈر - (ع - ۱ - ۱۱) نڈر - مرد - خدا - مادہ کا مقابلہ -

نڈر - (ع - ۱ - ۱۱) نڈر - مرد - خدا - مادہ کا مقابلہ -

نڈر - (ع - ۱ - ۱۱) نڈر - مرد - خدا - مادہ کا مقابلہ -

نڈر - (ع - ۱ - ۱۱) نڈر - مرد - خدا - مادہ کا مقابلہ -

نڈر - (ع - ۱ - ۱۱) نڈر - مرد - خدا - مادہ کا مقابلہ -

نڈر - (ع - ۱ - ۱۱) نڈر - مرد - خدا - مادہ کا مقابلہ -

نڈر - (ع - ۱ - ۱۱) نڈر - مرد - خدا - مادہ کا مقابلہ -

نڈر - (ع - ۱ - ۱۱) نڈر - مرد - خدا - مادہ کا مقابلہ -

نڈر - (ع - ۱ - ۱۱) نڈر - مرد - خدا - مادہ کا مقابلہ -

نڈر - (ع - ۱ - ۱۱) نڈر - مرد - خدا - مادہ کا مقابلہ -

نڈر - (ع - ۱ - ۱۱) نڈر - مرد - خدا - مادہ کا مقابلہ -

نڈر - (ع - ۱ - ۱۱) نڈر - مرد - خدا - مادہ کا مقابلہ -

نڈر - (ع - ۱ - ۱۱) نڈر - مرد - خدا - مادہ کا مقابلہ -

نڈر - (ع - ۱ - ۱۱) نڈر - مرد - خدا - مادہ کا مقابلہ -

نڈر - (ع - ۱ - ۱۱) نڈر - مرد - خدا - مادہ کا مقابلہ -

نڈر - (ع - ۱ - ۱۱) نڈر - مرد - خدا - مادہ کا مقابلہ -

نڈر - (ع - ۱ - ۱۱) نڈر - مرد - خدا - مادہ کا مقابلہ -

نڈر - (ع - ۱ - ۱۱) نڈر - مرد - خدا - مادہ کا مقابلہ -

نڈر - (ع - ۱ - ۱۱) نڈر - مرد - خدا - مادہ کا مقابلہ -

نڈر - (ع - ۱ - ۱۱) نڈر - مرد - خدا - مادہ کا مقابلہ -

نڈر - (ع - ۱ - ۱۱) نڈر - مرد - خدا - مادہ کا مقابلہ -

نڈر - (ع - ۱ - ۱۱) نڈر - مرد - خدا - مادہ کا مقابلہ -

نڈر - (ع - ۱ - ۱۱) نڈر - مرد - خدا - مادہ کا مقابلہ -

نڈر - (ع - ۱ - ۱۱) نڈر - مرد - خدا - مادہ کا مقابلہ -

نڈر - (ع - ۱ - ۱۱) نڈر - مرد - خدا - مادہ کا مقابلہ -

نڈر - (ع - ۱ - ۱۱) نڈر - مرد - خدا - مادہ کا مقابلہ -

نڈر - (ع - ۱ - ۱۱) نڈر - مرد - خدا - مادہ کا مقابلہ -

نڈر - (ع - ۱ - ۱۱) نڈر - مرد - خدا - مادہ کا مقابلہ -

نرالا کاٹھ کا اُلوسے (۱۳ سوارہ) بڑا سے وقف ہے۔
 نراج - (۱۱ - راج) (۱۵ - امد) (۱۱) لاقانونیت (۲) فوضویت - حکومت کا
 دشمنی - یہ سیاسی عقیدہ مرکزی طاقت نظم و تشدد پر منتج ہوتی
 ہے۔ اس لیے کسی مرکزی حکومت کی ضرورت نہیں۔ انا کریم۔
 نراجی - (۱۱ - راج) (۱۵ - امد) [حکومت دشمن۔ فوضوی۔ نظریہ نراج کا
 پیرو۔ (Anarchist)
 نرالا - (۱۱ - راج) (۱۵ - صفت) (۱۱) اُلکھا۔ سب سے الگ۔
 نرالا پن - (۱۵ - مذم) اُلکھا پن۔
 نرالی - (۱۱ - راج) (۱۵ - صفت) اُلکھی۔ اقیانوسی۔ نرالا کی تائینت۔
 نرانا - (۱۱ - راج) (۱۵ - صفت) نرالی کرنا - باغ یا کھیت سے خورد و گھاس
 چھوٹس نکالنا۔
 نرانی - (۱۱ - راج) (۱۵ - صفت) باغ یا کھیت کو خورد و گھاس چھوٹس اور
 کانٹوں وغیرہ سے صاف کرنا۔
 نرہسی - (۱۱ - راج) (۱۵ - صفت) ایک دوکان نام جھدار (۲)
 ایک قسم کا گھاس۔
 نرہن - (۱۱ - راج) (۱۵ - صفت) شرح سدر قیمت - عمل۔
 نرہن بڑھنا - (۱۱ - محاورہ) بھاد بڑھ جانا۔
 نرہن بندی - (۱۱ - صفت) قیمت کا فیصلہ قیمت مقرر کرنا۔
 نرہن لوڑنا - (۱۱ - محاورہ) بھاد کھٹانا۔
 نرہن تیز ہونا - (۱۱ - محاورہ) بھاد بڑھ جانا۔
 نرہن چڑھنا - (۱۱ - محاورہ) بھاد بڑھانا۔
 نرہن نامہ - (۱۱ - صفت) بازار کے بھاد کی فہرست۔
 نرہنرا - (۱۱ - راج) (۱۵ - صفت) حلقوں کے کی نالی اصل نرہن ہے
 نرہنرا لولٹا - (۱۱ - محاورہ) مرتے وقت حلق سے نرہنراہٹ کی آواز نکال کر لگنا۔
 نرہن - (۱۱ - صفت) ایک بازی جسے تختہ نرہن کہتے ہیں۔ (۲) چوڑی
 گولٹ شطرنج کا ہنر۔
 نرہن مارنا - (۱۱ - محاورہ) گولٹ بیٹھا بازی جیتنا۔
 نرہن بان - (۱۱ - راج) (۱۵ - صفت) زمین۔ سیرٹی۔
 نرہن - (۱۱ - راج) (۱۵ - صفت) چھوٹی ترازو۔
 نرس - (Nurse) (انگ) (۱۱ - صفت) دایہ۔ تیمارداری کرنے والی۔
 نرس - (۱۱ - راج) (۱۵ - صفت) بہت کم۔ کم تر۔
 نرسری - (Nursery) (انگ) (۱۱ - صفت) بچوں کے بڑھنے والی جگہ۔
 نرسری اور ان کے پرورش کرنے کی جگہ وغیرہ۔
 نرسری سکول - (انگ) (۱۱ - صفت) بچوں کا ابتدائی مدرسہ۔
 نرسنل - (۱۱ - راج) (۱۵ - صفت) سرکھٹا۔ نرسنل۔
 نرسنگ - (Nursing) (انگ) (۱۱ - صفت) تیمارداری کرنا
 نرس کا پیشہ یا کام۔
 نرسنگا - (۱۱ - راج) (۱۵ - صفت) ایک قسم کا بیلے کا سینک۔ بگل
 جیٹا۔
 نرسنگھ - (۱۱ - راج) (۱۵ - صفت) دیشور کا چوتھا پتہ

جس کا سر شیر جیسا ہوتا ہے۔
 نرغہ - (۱۱ - راج) (۱۵ - صفت) آدمیوں کا گھیرا۔ انورہ - بھوم - بھیت - (۲)
 شکل - دشواری۔
 نرغہ کرنا - (۱۱ - صفت) چاروں طرف سے گھیرنے میں لے لینا۔
 نرغہ ہونا - (۱۱ - صفت) چاروں طرف سے دشمنوں میں گھیرا جانا۔
 نرغے میں آجانا - (۱۱ - محاورہ) چاروں طرف سے گھیر لیا جانا، آفت میں
 مبتلا ہو جانا۔ مصیبت میں پھنس جانا۔
 نرغے میں جان ہونا - (۱۱ - محاورہ) عذاب میں جان ہونا۔ مصیبت
 میں پھنس جانا۔
 نرغے میں ڈالنا - (۱۱ - محاورہ) مصیبت میں پھنسا دینا۔
 نرگ - (۱۱ - راج) (۱۵ - صفت) دوزخ - جہنم - پانال۔
 نرگل - (۱۱ - راج) (۱۵ - صفت) نرگل۔ نرگل۔
 نرگی - (۱۱ - راج) (۱۵ - صفت) دوزخی۔ جہنمی۔ گنہگار۔
 نرگس - (۱۱ - راج) (۱۵ - صفت) ایک بھولے جیسے شعرا اکٹھے سے تشبیہ
 دیتے ہیں۔ جانا محبوب کی حسرت اکٹھے۔
 نرگس بیمار - (۱۱ - صفت) معشوق کی اکٹھے۔ جھور اکٹھے۔ حسرت اکٹھے۔
 نرگس شہلا - (۱۱ - صفت) نرگس کی ایک قسم جس کا درمیانی حصہ زرد
 رنگ کی بجائے سیاہ ہوتا ہے۔
 نرگس کور - (۱۱ - صفت) نیشلی اکٹھے۔ متوالی اکٹھے۔
 نرگسی - (۱۱ - راج) (۱۵ - صفت) نرگس سے نسبت رکھنے والا۔ نرگس سے
 مشابہ (۲) نرگس قسم کا کپڑا جس پر نرگس جیسے پھول بنے ہوئے ہوتے
 ہیں (۳) ایک قسم کا کھانا۔
 نرگی بلاؤ - (۱۱ - صفت) وہ پاؤں میں ابلے ہوئے انڈوں کو کوفتوں میں
 بٹکا کر اور درمیان سے دو کر کے رکھ دیتے ہیں۔
 نرگی چشمہ - (۱۱ - صفت) نرگس سے مشابہ اکٹھے (۲) بڑی اکٹھے۔
 نرگی کباب - (۱۱ - صفت) شاہی کباب بن میں ابلے ہوئے انڈے کو گول گول
 کاٹ کر ایک ایک ٹکڑا پر کباب میں رکھ دیا جاتا ہے۔
 نرگم - (۱۱ - صفت) (۱) علامہ (۲) گدگد (۳) پیلپا رام، لوجھدار - (۵)
 ڈھیلا - (۱۱ - صفت) (۶) حسرت (۷) مدہم (۸) آسان (۹) ہلکا (۱۰)
 بڑھ بار (۱۱) نازک۔
 نرگم آواز - (۱۱ - صفت) ہارک اور سرکلی آواز۔ ہکی اور ٹیٹی آواز۔
 نرگم باتیں - (۱۱ - صفت) باتیں بولی۔
 نرگم بولی - (۱۱ - صفت) ایسی باتیں جی سے عاجزی اور خاکساری ظاہر
 ہو۔ خیریں سنہتی۔
 نرگم چارہ - (۱۱ - صفت) نرگم خوراک۔ زرد، ہضم خوراک۔
 نرگم خوراک - (۱۱ - صفت) نرگم خوراک۔ نرگم خوراک۔
 نرگم خوش خلق - (۱۱ - صفت) نرگم خوراک۔ نرگم خوراک۔
 نرگم دل - (۱۱ - صفت) نرگم خوراک۔ نرگم خوراک۔
 نرگم رو - (۱۱ - صفت) نرگم خوراک۔ نرگم خوراک۔
 نرگم روئی - (۱۱ - صفت) نرگم خوراک۔ نرگم خوراک۔

فرحت بخش -
 فرہمت (گدہ) گاہ - (ع۔ ۱۔ مٹ) سیر گاہ - تفریحی مقام - سرسبز اور
 شاداب جگہ -
 فریال - (ن۔ ز۔ ن۔) (ع۔ ۱۔ ص ۱۱) کسی جگہ آنے والا - کسی جگہ قیام کرنے والا
 (۲) چھان - مسافر -

ن۔ ث۔

نثر اور - (ن۔ ث۔) (ع۔ ۱۔ مٹ) اصل نثر - حسب - نسب (۲) ختم - نطفہ -
 نثر مند - (ن۔ ث۔) (ع۔ ۱۔ ص ۱۱) نگین (۲) خوشنک (۳) نیچے کا درجہ - ذلیل و
 خوار (۴) پست - نیچا (۵) ناراض - خفا -

ن۔ س۔

نس - (ع۔ ۱۔ ۵۳) مٹ - رگ - ریشہ - خون کی باریک نالی (۲) عصب پٹھا -
 (۳) اکر شائل -
 نس بھڑک جانا - (ع۔ ۱۔ ع۔ ۱۱) رگ کو چوٹ لگنا (۲) پٹھا یا رگ پڑھنا -
 نس دار - (ع۔ ۱۔ ص ۱۱) عصب بہت سی رگیں والا - رگ دار - ریشہ دار -
 نس کا مزنا - (ع۔ ۱۔ ع۔ ۱۱) عوارہ رگ کا کزور ہو جانا - پٹھے کا کزور ہو جانا -
 نس لگنا - (ع۔ ۱۔ ع۔ ۱۱) عوارہ خواجہ سرا - بیجہ - زنناہ - زرخفا -
 نس - (ع۔ ۱۔ ۵۴) مٹ - (ع۔ ۱۱) رات (۲) حرف نفی - نا - نہیں - بغیر -
 نس و ن - (ع۔ ۱۔ ص ۱۱) رات - دن - شب و روز - ہمیشہ - سدا -
 نسار - (ع۔ ۱۔ ص ۱۱) مٹ - عورتیں - بیویاں
 نساچر - (ع۔ ۱۔ ص ۱۱) رات کو بھرنے والا - چور - رہزن (۲) مچھوت - پریت -
 نساب - (ع۔ ۱۔ ص ۱۱) مٹ - علم النسب کا جاننے والا -
 نساخ - (ع۔ ۱۔ ص ۱۱) مٹ - (ع۔ ۱۱) مٹ - (ع۔ ۱۱) مٹ - (ع۔ ۱۱) مٹ - (ع۔ ۱۱) مٹ - (ع۔ ۱۱) مٹ -
 نساچال - (ع۔ ۱۔ ص ۱۱) مٹ - (ع۔ ۱۱) مٹ - (ع۔ ۱۱) مٹ - (ع۔ ۱۱) مٹ - (ع۔ ۱۱) مٹ -
 نسوں کا حال (۲) بہت بڑا حال جس سے نکلنا محال ہو -
 نسا رنا - (ع۔ ۱۔ ص ۱۱) مٹ - (ع۔ ۱۱) مٹ - (ع۔ ۱۱) مٹ - (ع۔ ۱۱) مٹ - (ع۔ ۱۱) مٹ -
 نسا تا - (ع۔ ۱۔ ص ۱۱) مٹ - (ع۔ ۱۱) مٹ - (ع۔ ۱۱) مٹ - (ع۔ ۱۱) مٹ - (ع۔ ۱۱) مٹ -
 نس گم کرنا -
 نسائم - (ع۔ ۱۔ ص ۱۱) مٹ - (ع۔ ۱۱) مٹ - (ع۔ ۱۱) مٹ - (ع۔ ۱۱) مٹ - (ع۔ ۱۱) مٹ -
 نسائم - (ع۔ ۱۔ ص ۱۱) مٹ - (ع۔ ۱۱) مٹ - (ع۔ ۱۱) مٹ - (ع۔ ۱۱) مٹ - (ع۔ ۱۱) مٹ -
 نساورا - (ع۔ ۱۔ ص ۱۱) مٹ - (ع۔ ۱۱) مٹ - (ع۔ ۱۱) مٹ - (ع۔ ۱۱) مٹ - (ع۔ ۱۱) مٹ -
 شاہ پرفسید ہوتے ہیں -
 نسب - (ع۔ ۱۔ ص ۱۱) مٹ - (ع۔ ۱۱) مٹ - (ع۔ ۱۱) مٹ - (ع۔ ۱۱) مٹ - (ع۔ ۱۱) مٹ -
 نسب پلنا - (ع۔ ۱۔ ص ۱۱) مٹ - (ع۔ ۱۱) مٹ - (ع۔ ۱۱) مٹ - (ع۔ ۱۱) مٹ - (ع۔ ۱۱) مٹ -
 شجرہ ایک ہونا -

نسب نامہ - (ع۔ ۱۔ ۱۰) مٹ - خاندان کا شجرہ - گرسنی نامہ -
 نسب نما - (ع۔ ۱۔ ۱۰) مٹ - علم حساب میں وہ عدد جس سے معلوم ہو کہ ایک عدد
 کتنے برابر حصے کیے گئے ہیں (۲) کسی کے نیچے کا ہندسہ -
 نسبت - (ع۔ ۱۔ ۱۰) مٹ - (ع۔ ۱۰) مٹ - کسی چیز کی طرف منسوب ہونا (۲) علاقہ وسط
 تعلق (۳) مطابقت (۴) متشکل - سگانی -
 نسبت آنا - (ع۔ ۱۱) عوارہ لڑکی کا رشتہ آنا - شادی کا پیغام آنا -
 نسبت ٹھہرانا - (ع۔ ۱۱) عوارہ شادی کی بات کی ہونا -
 نسبت دینا - (ع۔ ۱۱) عوارہ تشبیہ دینا - نظیر دینا - تعلق ظاہر کرنا -
 نسبت رکھنا - (ع۔ ۱۱) عوارہ تعلق رکھنا - لگاؤ رکھنا -
 نسبت کرنا - (ع۔ ۱۱) عوارہ چلنی کرنا - منسوب کر دینا -
 نسبت نانا - (ع۔ ۱۱) مٹ - شادی بیاہ - رشتہ داری -
 نسبت ہونا - (ع۔ ۱۱) عوارہ تعلق ہونا - مطابقت ہونا - شاہد ہونا (۲)
 چلنی ہونا - بات ٹھہرنا -
 نسبتی - (ع۔ ۱۱) مٹ - (ع۔ ۱۱) مٹ - (ع۔ ۱۱) مٹ - (ع۔ ۱۱) مٹ - (ع۔ ۱۱) مٹ -
 نسبت رکھنے والا -
 نسبتی بھائی - (ع۔ ۱۱) مٹ - (ع۔ ۱۱) مٹ - (ع۔ ۱۱) مٹ - (ع۔ ۱۱) مٹ - (ع۔ ۱۱) مٹ -
 نسبی - (ع۔ ۱۱) مٹ - (ع۔ ۱۱) مٹ - (ع۔ ۱۱) مٹ - (ع۔ ۱۱) مٹ - (ع۔ ۱۱) مٹ -
 نسا را - (ع۔ ۱۱) مٹ - (ع۔ ۱۱) مٹ - (ع۔ ۱۱) مٹ - (ع۔ ۱۱) مٹ - (ع۔ ۱۱) مٹ -
 عبور کرنا (۲) نہات بکھی (۳) فرض کی ادا کیگی -
 نسترن - (ع۔ ۱۱) مٹ - (ع۔ ۱۱) مٹ - (ع۔ ۱۱) مٹ - (ع۔ ۱۱) مٹ - (ع۔ ۱۱) مٹ -
 نستعلیق - (ع۔ ۱۱) مٹ - (ع۔ ۱۱) مٹ - (ع۔ ۱۱) مٹ - (ع۔ ۱۱) مٹ - (ع۔ ۱۱) مٹ -
 نوصات اور مسدحا ہوتا ہے (۲) (ع۔ ۱۱) مٹ - (ع۔ ۱۱) مٹ - (ع۔ ۱۱) مٹ - (ع۔ ۱۱) مٹ - (ع۔ ۱۱) مٹ -
 نسخ - (ع۔ ۱۱) مٹ - (ع۔ ۱۱) مٹ - (ع۔ ۱۱) مٹ - (ع۔ ۱۱) مٹ - (ع۔ ۱۱) مٹ -
 طرز تحریر -
 نسخہ - (ع۔ ۱۱) مٹ - (ع۔ ۱۱) مٹ - (ع۔ ۱۱) مٹ - (ع۔ ۱۱) مٹ - (ع۔ ۱۱) مٹ -
 مغلدہ رسالہ (۲) غذا کا وہ پرچہ جس پر طبیب دوائی تجویز کرتا ہے
 (۴) ترکیب - طریقہ - ڈھنگ - بیج - نسخہ جات -
 نسخہ باندھنا - طبیب کے کئے ہوئے نسخہ کے مطابق عطار کا ادویات
 کی پڑیاں باندھنا -
 نسخہ لکھنا - (ع۔ ۱۱) مٹ - (ع۔ ۱۱) مٹ - (ع۔ ۱۱) مٹ - (ع۔ ۱۱) مٹ - (ع۔ ۱۱) مٹ -
 نسخہ - (ع۔ ۱۱) مٹ - (ع۔ ۱۱) مٹ - (ع۔ ۱۱) مٹ - (ع۔ ۱۱) مٹ - (ع۔ ۱۱) مٹ -
 نسخہ طائر - (ع۔ ۱۱) مٹ - (ع۔ ۱۱) مٹ - (ع۔ ۱۱) مٹ - (ع۔ ۱۱) مٹ - (ع۔ ۱۱) مٹ -
 ہے جو پڑھنے اور لکھنے کی طرف آتا ہے -
 نسروایع - (ع۔ ۱۱) مٹ - (ع۔ ۱۱) مٹ - (ع۔ ۱۱) مٹ - (ع۔ ۱۱) مٹ - (ع۔ ۱۱) مٹ -
 کے پہلوؤں میں دو ستارے ہیں - جو اس سے اس طرح ملی گئے
 ہیں کہ اس کی صورت اس گدھ جیسی بن گئی ہے جو کندھے جوڑے ہوئے
 ہو - اسے نسریج اور نسرفک بھی کہتے ہیں -
 نسریج - (ع۔ ۱۱) مٹ - (ع۔ ۱۱) مٹ - (ع۔ ۱۱) مٹ - (ع۔ ۱۱) مٹ - (ع۔ ۱۱) مٹ -
 نسریج - (ع۔ ۱۱) مٹ - (ع۔ ۱۱) مٹ - (ع۔ ۱۱) مٹ - (ع۔ ۱۱) مٹ - (ع۔ ۱۱) مٹ -
 نسریج بدن - نسریج کن - نسریج رخ - (ع۔ ۱۱) مٹ - (ع۔ ۱۱) مٹ - (ع۔ ۱۱) مٹ -
 نسریج سے

نشا خاطر۔ دل کی تسلی۔ دل جمعی۔ اطمینان۔ نشی پیدائش۔ نئی پیدائش۔ نئی زندگی
نشأۃ (نش۔ آت۔ اذ۔ ا۔ مٹ) پیدائش۔ نئی پیدائش۔ نئی پیدائش۔ نئی زندگی
شروع ہونا۔ نوجوان ہونا۔

نشأۃ ثانیہ۔ کسی قوم یا ملک کا از سر نو ترقی کرنا۔ دوبارہ عروج پانا (انگ)
(Renaissance)

نشائین۔ (نش۔ ا۔ بین۔ اذ۔ ا۔ مٹ) دونوں جہان۔ دنیا اور عقیقت۔
نشاستہ۔ (نش۔ شاس۔ اذ۔ ا۔ مٹ) کیوں کا ست۔ مغز گندم (۲)
کھٹ۔ ماندی بیج (۳) جمایا ہوا۔ بیٹھا ہوا۔

نشاط۔ (ن۔ نشاط)۔ (ذ۔ ا۔ مٹ) خوشی۔ نشاطمانی۔ فرحت۔ مزہ۔
نشاط افزا (انگیز)۔ (ذ۔ ف۔ صفت) فرحت بڑھانے والا۔ خوشی زیادہ
کرنے والا۔

نشاط کار۔ (ذ۔ ف۔ ا۔ مٹ) کام کرنے کی اُٹھک۔ کار گذاری کا شوق۔

نشافت۔ (نش۔ شافت)۔ (ذ۔ صفت) جذب کرنے والا۔ جاذب۔

نشان۔ (ن۔ نشان)۔ (ف۔ ا۔ مٹ) (۱) آثار (۲) کھوج۔ پتہ۔ سراغ۔ (۳)
چھپا۔ چھاپا (۴) یا نگار (۵) جھنڈا۔ علم (۶) مقام۔ پتہ (۷) داغ۔
دھبہ (۸) بادشاہ کا فرمان (۹) تمغہ (۱۰) اثر۔ علامت (۱۱) کارخانے
کی مہر۔ گریڈ مارک (۱۲) کھرا۔ کھوج (۱۳) پھوٹے یا زخم کا داغ (۱۴)
بدن نشانی (۱۵) کسی جماعت کی علامت۔

نشان بانی نہ چھوڑنا (رکھنا)۔ (۱) محاورہ) نیست دنا بود کرنا۔ برباد کرنا۔
نشان بردار۔ (ف۔ صفت) علم بردار۔ جھنڈا لے کر چلنے والا۔

نشان یا۔ (ن۔ ا۔ مٹ) قدم کا نشان جو چلنے میں زمین پر بن جاتا ہے۔

نشان پانا۔ (۱) محاورہ) پتہ پالینا۔ سراغ پانا۔

نشان پر سہرا چڑھانا۔ (۱) محاورہ) منت پوری ہونے کے بعد تعزینے
کے علم پر پھولوں کے سہرے چڑھانا۔

نشان پڑنا۔ (۱) محاورہ) دھبہ پڑنا۔ چوٹ کی علامت بانی رہنا۔

نشان چڑھنا۔ (۱) محاورہ) منگنی یا ساجن کے روز انگوٹھی چھلا وغیرہ
دھن کو پہنانا۔

نشان دہی۔ (ف۔ مٹ) سراغ رسانی۔ پتہ دینا۔ ٹھکانا بتانا۔

نشان رہ جانا۔ (۱) محاورہ) علامت یا یا نگار بانی رہ جانا۔

نشان سے گزر جانا۔ (۱) محاورہ) نام دہی حاصل کرنے کی خواہش
بانی نہ رہنا۔

نشان کرنا۔ (۱) محاورہ) (۱) دھبہ ڈالنا (۲) نمبر ڈالنا۔ صحیح کرنا۔

نشان کاڑنا۔ (۱) محاورہ) جھنڈا کاڑنا۔

نشان مٹانا۔ (۱) محاورہ) نام و نشان بانی نہ رہنا۔ کوئی یادگار بانی نہ چھوڑنا

نشان مٹنا۔ (۱) محاورہ) سراغ مٹنا۔

نشان نہ رکھنا۔ (۱) محاورہ) نیست دنا بود کرنا۔ تباہ و برباد کر دینا۔

نشاپچی۔ (ن۔ نشان۔ چی)۔ (ت۔ ا۔ مٹ) (۱) عمدہ نشانہ لگانے والا (۲)
جھنڈا بردار۔

نشانی۔ (ن۔ نشان)۔ (ت۔ ا۔ مٹ) (۱) بدھ۔ وہ علامت جو گولی یا تیر کی مشق
کے لیے بنائی جائے۔ گولی یا تیر مارنے کی جگہ۔ شہت۔ زور۔

نش جسم والا۔ محبوب۔
نش طور۔ (نش۔ طوہ)۔ (ذ۔ ا۔ مٹ) آتش پرستوں کا پیشوا۔ پیر دانا۔
نشقی۔ (ن۔ نشقی)۔ (ذ۔ ا۔ مٹ) قاعدہ۔ دستور (۲) بندوبست۔ انتظام۔
نش گل۔ (ن۔ نش۔ گل)۔ (ق) لاچار۔ محتاج۔

نشگل۔ (ذ۔ ا۔ مٹ) (۱) آکل۔ اولاد۔ بال بچے۔ قبیلہ۔ خاندان۔
نشگل بڑھانا۔ (۱) محاورہ) اولاد زیادہ کرنا۔ پور بڑھانا۔

نشگل پدیری۔ (ذ۔ ا۔ مٹ) (۱) مٹ۔ باب کا خاندان۔ جدی خاندان۔

نشگل دار۔ (ذ۔ ف۔ ا۔ مٹ) (۱) اچھی ذلت کا۔ اچھے خاندان کا۔

نشگل عالی نسب۔

نشگل بعد نسل۔ (نش۔ ن۔ بعد نش۔ ن۔ ا۔ مٹ) (۱) تالیق نسل، پشت در پشت۔
نسل۔ (نش۔ ن۔ ا۔ مٹ) (۱) نسل سے متعلق۔ اچھی نسل کا۔

نشگلنا۔ (نش۔ ن۔ ا۔ مٹ) (۱) مٹ۔ مٹا۔ بھانگا۔ چلا جانا۔

نشگل ناس۔ (نش۔ ناس)۔ (ذ۔ ا۔ مٹ) (۱) مٹا۔ مٹا۔ بھانگا۔ چلا جانا۔

نشگل ناس ہندی۔ (ذ۔ ا۔ مٹ) (۱) ہندوستانی بندیا یا گھور۔

نشگل دار۔ (نش۔ دار)۔ (ذ۔ ا۔ مٹ) (۱) مٹا۔ مٹا۔ بھانگا۔ چلا جانا۔

نشگلوان۔ (نش۔ وان)۔ (ذ۔ ا۔ مٹ) (۱) مٹا۔ مٹا۔ بھانگا۔ چلا جانا۔

نشگلوانی۔ (نش۔ وان)۔ (ذ۔ ا۔ مٹ) (۱) مٹا۔ مٹا۔ بھانگا۔ چلا جانا۔

نشگلوت۔ (ن۔ سوت)۔ (ذ۔ صفت) (۱) خاص۔ صاف۔ شہرا بکار (۲) بیتر ملاوٹ
کا (۳) ایک پودے کا نام۔

نشگل ہٹیا۔ (نش۔ ہٹیا)۔ (ذ۔ صفت) (۱) مٹا۔ مٹا۔ بھانگا۔ چلا جانا۔

نشگل ہوا۔ (ذ۔ صفت) (۱) مٹا۔ مٹا۔ بھانگا۔ چلا جانا۔

نشگل ہوا۔ (ذ۔ صفت) (۱) مٹا۔ مٹا۔ بھانگا۔ چلا جانا۔

نشگل ہوا۔ (ذ۔ صفت) (۱) مٹا۔ مٹا۔ بھانگا۔ چلا جانا۔

نشگل ہوا۔ (ذ۔ صفت) (۱) مٹا۔ مٹا۔ بھانگا۔ چلا جانا۔

نشگل ہوا۔ (ذ۔ صفت) (۱) مٹا۔ مٹا۔ بھانگا۔ چلا جانا۔

نشگل ہوا۔ (ذ۔ صفت) (۱) مٹا۔ مٹا۔ بھانگا۔ چلا جانا۔

نشگل ہوا۔ (ذ۔ صفت) (۱) مٹا۔ مٹا۔ بھانگا۔ چلا جانا۔

نشگل ہوا۔ (ذ۔ صفت) (۱) مٹا۔ مٹا۔ بھانگا۔ چلا جانا۔

نشگل ہوا۔ (ذ۔ صفت) (۱) مٹا۔ مٹا۔ بھانگا۔ چلا جانا۔

نشگل ہوا۔ (ذ۔ صفت) (۱) مٹا۔ مٹا۔ بھانگا۔ چلا جانا۔

نشگل ہوا۔ (ذ۔ صفت) (۱) مٹا۔ مٹا۔ بھانگا۔ چلا جانا۔

نشگل ہوا۔ (ذ۔ صفت) (۱) مٹا۔ مٹا۔ بھانگا۔ چلا جانا۔

نشگل ہوا۔ (ذ۔ صفت) (۱) مٹا۔ مٹا۔ بھانگا۔ چلا جانا۔

نشگل ہوا۔ (ذ۔ صفت) (۱) مٹا۔ مٹا۔ بھانگا۔ چلا جانا۔

نشگل ہوا۔ (ذ۔ صفت) (۱) مٹا۔ مٹا۔ بھانگا۔ چلا جانا۔

نشگل ہوا۔ (ذ۔ صفت) (۱) مٹا۔ مٹا۔ بھانگا۔ چلا جانا۔

نشگل ہوا۔ (ذ۔ صفت) (۱) مٹا۔ مٹا۔ بھانگا۔ چلا جانا۔

نشگل ہوا۔ (ذ۔ صفت) (۱) مٹا۔ مٹا۔ بھانگا۔ چلا جانا۔

نشگل ہوا۔ (ذ۔ صفت) (۱) مٹا۔ مٹا۔ بھانگا۔ چلا جانا۔

ن۔ س۔ ش۔

نشا۔ (نش۔ ا)۔ (ذ۔ ا۔ مٹ) (۱) پیداکرنا (۲) دنیا جہاں۔
نشانی۔ (ن۔ نشان)۔ (ذ۔ ا۔ مٹ) (۱) اعتبار۔ یقین۔
نشانی۔ (ن۔ س)۔ (ذ۔ ا۔ مٹ) (۱) ذیل کے بروج کا مجموعی نام۔ ثور۔ جوزا۔ سرطان
قوس۔ جدوجہد۔

نشاندہ اڑوینا (اڑوانا) - نشاندہ کا ہدف پر بیٹھنا۔ گولی یا تیر مار کر ہدف کا نشان اڑوینا۔

نشاندہ انداز - (ن صفت) ٹھیک نشاندہ باندھنے والا۔ نشانی۔

نشاندہ باندھنا - (۱۱۔ محاورہ) نشاندہ ٹانگا۔

نشاندہ بنانا - (۱۱۔ محاورہ) ہدف بنانا، ہدف ملامت بنانا۔

نشاندہ بچھنا - (۱۶۔ محاورہ) نشاندہ خطا بچھانا۔

نشاندہ بنانا - (۱۱۔ محاورہ) گولی یا تیر وغیرہ مارنے کی جگہ بتانا، ہدف ملامت بنانا۔

نشاندہ بیٹھنا - (۱۱۔ محاورہ) گولی یا تیر صحیح نشانے یا ہدف پر لگانا۔

نشاندہ پرٹ پڑنا - (۱۲۔ محاورہ) نشاندہ خطا ہونا۔

نشاندہ (نشانے) پر بیٹھنا - (۱۲۔ محاورہ) گولی یا تیر صحیح نشانے پر لگانا مقصد برآنا، بات کا اثر ہونا۔

نشاندہ پر تیر پڑنا - (۱۱۔ محاورہ) (۱) زور پر تیر لگنا، (۲) تدبیر کارگر کو نلہ مقصد برآنا۔

نشاندہ ٹانگنا، جوڑنا - (۱۱۔ محاورہ) نشاندہ ٹانگا۔ نشاندہ باندھنا۔

نشاندہ چوکن - (۱۱۔ محاورہ) نشاندہ کا ہدف پر نہ پڑنا۔ نشاندہ خطا ہونا۔

نشاندہ خطا کرنا - (۱۱۔ محاورہ) نشاندہ چوک جانا۔ نشاندہ ہدف پر نہ بیٹھنا۔

نشاندہ خالی نہ جانا - (۱۱۔ محاورہ) وار خالی نہ جانا۔ نشست پر لگانا۔

نشاندہ کرنا (لنگنا، مارنا) - (۱۱۔ محاورہ) نشست باندھ کر گولی یا تیر نشانے پر مارنا، (۲) شکار کرنا، (۳) چاند مندی کرنا۔

نشاندہ ہونا - (۱۱۔ محاورہ) گولی یا تیر سے مارا جانا۔ مرجانا۔

نشانی - (ن۔ ش۔ نی، و ن۔ ا۔ مٹ) (۱) یادگار، (۲) پیمانہ - شناخت

علامت (۳) اکل - اولاد - نسل - خاندان (۴) منگوتھی یا زیورہ

منگوتھی کے روز دہن کو مینا تے ہیں۔

نشانی دینا - (۱۱۔ محاورہ) کوئی چیز بطور یادگار دینا۔

نشانی رکھنا - یادداشت کے واسطے کتاب میں کوئی چیز رکھنا۔

نشانی کرنا - ناخاندہ شخص کا دستخط کر کے یاد دہانی۔

نشانی کا چھلا - (۱۱۔ مذ) وہ چھلا جو بطور یادگار کسی کو دیا جائے۔

نشتر - (ن۔ ش۔ خ، و ن۔ ا۔ مذ) نشتر کا مختلف قسم چیلنے کا اوزار

نشتر دینا - (۱۱۔ محاورہ) نشتر لگانا۔ نشتر سے حیرنا۔

نشتر زین - (ن۔ صفت) نشتر دینے والا۔ قصا۔

نشتر کھانا - (۱۱۔ محاورہ) تکلف اٹھانا۔ صدمہ اٹھانا۔

نشتر لگانا - (۱۱۔ محاورہ) کسی عضو میں نشتر چھیننا۔

نشتر مارنا - (۱۱۔ محاورہ) نشتر سے کام لینا۔ نشتر کو بے ساختہ چھو دینا۔

نشٹ - (س۔ ا۔ مٹ) تباہی - بربادی (۲) ضائع شدہ (صفت) گھویا ہوا، پتھال - گشتہ۔

نشجبت - (س۔ صفت) معلوم کیا ہوا - تحقیق کیا ہوا (۲) فیصلہ شدہ (۳) (مذ)

یقین (۴) فیصلہ نتیجہ (۵) یقینی طور پر۔

نشچمنت - (س۔ ا۔ صفت) بے فکر ہے پروا ہے کوئی کام نہ سمجھتا

نشچے - (ن۔ ش۔ چے) (س۔ ا۔ مٹ) (۱) اعتیاش - تحقیقات (۲) پکی رائے

یقین - ایمان (۳) ارادہ - منشا۔

نشچے کرنا - (۱۱۔ محاورہ) یقین کرنا۔ دریافت کرنا (۲) ارادہ کرنا (۳) یقین کرنا، (۴) فیصلہ کرنا، (۵) منہ لینا۔

نشسر - (ع۔ ا۔ مذ) (۱) زندہ کرنا۔ زندہ ہونا (۲) اشاعت - پھیلاؤ (۳) گھبرنا۔

(۴) خبر شہور کرنا۔

نشسر الصوت - اکواڑ پھیلانا۔ براؤ کا سٹ کرنا۔

نشریات - (ن۔ ش۔ ری۔ آت) (ع۔ ا۔ مٹ) لاسکلی کے ذریعہ نشر کرنے کا سلسلہ۔ براؤ کا سٹنگ۔

نشریہ - (ع۔ ا۔ مذ) وہ بات جو ریڈیو پر اعلان کی جائے۔

نشست - (ن۔ نشست) (ن۔ ا۔ مٹ) (۱) بیٹھنا، (۲) (س۔ مٹ) کرسی۔

موزونیت (۳) صحبت - ہم نشینی (۴) بیٹھنے کی جگہ (۵) اجلاس۔

(۶) بارے کا بیٹھ جانا۔

نشست برخواست - (ن۔ ا۔ مٹ) (۱) اٹھنا۔ بیٹھنا (۲) اٹھنے بیٹھنے کی تمیز، (۳) جواب مجلس۔

نشست ٹھہرانا - (۱۱۔ محاورہ) بیٹھنے کی جگہ مقرر کرنا۔

نشست گاہ - (ن۔ ا۔ مٹ) بیٹھنا۔ (۱) بیٹھنے کی جگہ۔

نشو - (ع۔ ا۔ مذ) (۱) بالیدگی، روئیدگی۔ نو۔ پیداوار (۲) آگن - پیدا ہونا۔

ٹھہنا - پھولنا۔

نشوونما - (۱) بالیدگی، روئیدگی۔ پھولنا۔ پرورش پانا (۲)

روشن ہو کر ترقی۔

نشوونما پانا - (ع۔ ا۔ مذ) مٹ - نمو ہونا۔ پرورش پانا۔ سرسبز شاداب ہونا۔ ترقی پانا۔

نشور - (ن۔ نشور) (ع۔ ا۔ مذ) مردے کا روز جزا اٹھنا۔ حشر قیامت

نشور - (ن۔ نشور) (ن۔ ش۔ و ن۔ ا۔ مذ) (۱) سستی - سردی - ٹھنڈی

کیفیت جو خراب - فیون وغیرہ کے استعمال کے بعد پیدا ہوتی ہے (۲) غزور ٹھنڈ (۳) دولاڑ کرنگ

نشور آنا - (۱۱۔ محاورہ) سرد ہونا۔ نش چھنا (۲) مزہ آنا۔ ٹھنڈ آنا۔

نشور آرتنا - (۱۱۔ محاورہ) بوٹ میں آنا۔ خار جانا ہونا۔

نشور آس نے پیانا، خمار ہمیں چڑھا - (۱۱۔ ش) (۱) میہ آدمی کے شراب و خمر کریں تو ہمارا جاتا ہے۔

نشور باز - (ن۔ صفت) نشور کا مادی - نشور کا شوق رکھنے والا۔ شرابی۔

نشور ہونا - (۱۱۔ محاورہ) ایسا نشور ہونا جس سے جرأت اور دلیری جاتی رہے۔

نشور پانی - (۱۱۔ مذ) نشور کی چیز کھانا۔

نشور پانی کرنا - (۱۱۔ محاورہ) نشور ہونا۔ نشور کی چیز کھانے پینے کو دینا۔ (۲) رشوت دینا۔

نشور پیدا ہونا - (۱۱۔ محاورہ) نشور کی چیز کھانے سے سستی کی حالت ہونا۔

نشور چھنا - (۱۱۔ محاورہ) نشور پیدا ہونا۔ نشور کا پیدا ہونا۔

نشور جوان ہونا - (۱۱۔ محاورہ) نشور کا تیزی پر ہونا۔

نشور چڑھنا - (۱۱۔ محاورہ) سرور ہونا۔ مست ہونا۔ غمور ہونا۔

نُصْر قرآنی۔ (ع۔ ۱۔ مذ) صاف اور صریح آیات۔ قرآن مجید کے واضح احکام۔

نُصْر ناطق۔ (ع۔ ۱۔ صفت) قطعی حکم۔ ایسا کلام جس میں شک و شبہ کی گنجائش نہ ہو۔

نُصَاب۔ (ن۔ صواب) (ع۔ ۱۔ مذ) (۱) پڑھائی کا کورس۔ متنبین شدہ درس (۲) سرمایہ۔ پونجی۔ مال جس پر زکوٰۃ دینا واجب ہو (۳) جانچ تول۔ اندازہ (۴) جڑ۔ بنیاد (۵) شہزاد کی مومنتھ (۶) چاقو کا دستہ۔ تلوار کا قبضہ۔

نُصَاب تعلیم۔ (ع۔ ۱۔ مذ) درس و تدریس کی وہ کتابیں جو کسی خاص جماعت کے لیے مقرر کی گئی ہوں۔

نُصَابی۔ (ن۔ صابی) (ع۔ صفت) نُصَاب سے متعلق۔

نُصَارَئِی۔ (ن۔ صا۔ را) (ع۔ ۱۔ مذ) دین مسیحی کے پیرو۔ عیسائی۔ نُصَارَئِی کی جمع۔

نُصَاخ۔ (ن۔ صاخ) (ع۔ ۱۔ صفت) نصیحت کی جمع۔ نصیحتیں۔ پند نیک مشورے۔

نُصَب۔ (ع۔ ۱۔ مذ) (۱) کھڑا کرنا۔ لگانا۔ قائم کرنا۔ برپا کرنا (۲) نذر کی علامت جمع۔ انُصَاب۔

نُصَب العین۔ (ع۔ ۱۔ مذ) اصلی مقصد۔ ولی منشا (۳) اصول۔

نُصَب کرنا۔ (ع۔ ۱۔ صفت مرکب) کھڑا کرنا۔ گھڑنا۔ برپا کرنا۔ قائم کرنا۔

نُصْر۔ (ع۔ ۱۔ صفت) (۱) مدد۔ یاری (۲) فتح۔ نِصْر۔ منظور خاطر۔

نُصْر مِّنَ اللّٰہِ وَفَتْحٌ قَرِیْبٌ۔ (آیت قرآنی) ہم پر چلنے والے کے لیے دُعا کے طور پر کہتے ہیں۔ خداوند تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو تو فتح نزدیک ہے۔

نُصْرَئِی۔ (نُصْر۔ را) (ع۔ ۱۔ مذ) دین مسیح کا پیرو۔ عیسائی۔

نُصْرَانِیَّة۔ (نُصْر۔ را) (ع۔ ۱۔ مذ) عیسائی مذہب مسیحی عقائد کی باتیں۔

نُصْرَت۔ (نُصْر۔ رت) (ع۔ ۱۔ مذ) (۱) مدد۔ حمایت (۲) فتح۔ جیت۔

نُصْف۔ (ع۔ صفت) آدھا۔ نیم۔

نُصْف البہار۔ دو پہر کا وقت۔ دن کا نصف۔

نُصْف دائرہ۔ (ع۔ ۱۔ مذ) دائرے کا نصف جس میں قطر دائرے کو دو برابر حصوں میں تقسیم کرتا ہے۔

نُصْف قطر۔ (ع۔ ۱۔ مذ) قطر کی کل لمبائی کا آدھا۔

نُصْفَان (نُصْف البصفی)۔ (نُصْف۔ فا۔ نصف) (نُصْف۔ سنی) (اُذ۔ صفت) آدھا۔ آدھوں آدھ۔ آپس میں برابر کی تقسیم۔

نُصْفَت۔ (نُصْف۔ فت) (ع۔ ۱۔ صفت) انصاف۔ عدل۔

نُصُوْح۔ (ن۔ نُصُوْح) (ع۔ ۱۔ مذ) (۱) خالص۔ صاف۔ پکا توہ۔

نُصُوْح حَافِئِیْ تَوْبَہ۔ (ع۔ ۱۔ صفت) وہ توہ جو ہمیشہ کے لیے ہو۔

نُصُوْح۔ (ن۔ نُصُوْح) (ع۔ ۱۔ صفت) قرآن کریم کی وہ آیات جن کے معانی صاف اور صریح ہوں۔ نُصْح کی جمع۔

نُصِیْب۔ (ن۔ نُصِیْب) (ع۔ ۱۔ مذ)۔ قسمت۔ طالع۔ تقدیر (۲) حصہ۔

نُشْر رہنا۔ (۱) محاورہ) سرور رہنا۔ مستی قائم رہنا۔

نُشْر شَب (جوانی)۔ (ن۔ ش۔ ر) جوانی کا مجوس۔

نُشْر کرنا (محاورہ) رنگ میں جھنگ ڈالنا۔ مزہ بگاڑنا۔ عیش میں غفل پیدا کرنا۔

نُشْر مٹا کرنا۔ (۱) محاورہ) نُشْر کرنا کر دینا۔ رنگ میں جھنگ ڈالنا۔

نُشْر و مروانگی۔ (ن۔ ۱۔ صفت) مروانگی کا عذر دور۔ مروانگی کا جوش۔ بہادری اور مروانگی پر ناز۔

نُشْر ہر ن۔ (محاورہ) (۱) کسی خوف یا صدمہ کے باعث نُشْر کا نعم ہو جانا۔ بے ہوشی سے بولنا میں آجانا (۲) غفلت جاتی رہنا۔

نُشْر۔ (ن۔ ۱۔ محاورہ) سرور ہونا شہادت ہونا۔ مدوشی طاری ہونا۔

نُشْرے میں بھگنا۔ (محاورہ) بدست ہو کر بہبودہ باتیں کرنا (۲) مفرد ہونا۔

نُشْرے کا آثار۔ (۱) مذ) نُشْرے کا کم ہونا۔ خمار کا جانا رہنا۔

نُشْرے کا جو لکر دینا۔ (محاورہ) بھگنا نُشْرے ہونا۔ بہت بدست ہونا۔

نُشْرے کے ڈورے۔ آنکھ کی رگوں کی سُرخھی جو خناسے آنکھوں سے ظاہر ہوتی ہے۔

نُشْرے میں رجز۔ (محاورہ) (۱) عین۔ بے عمدہ۔ سرشار۔ مدوش۔ بدست۔

نُشْرِیْب۔ (ن۔ ش۔ یب) (ع۔ ۱۔ مذ) پستی۔ گہرائی۔ پچان۔

نُشْرِیْب و فرار۔ (ن۔ ۱۔ مذ) اُدُخ۔ پھوٹ۔ آتار چڑھاؤ۔

نُشْرِہ۔ (ن۔ ش۔ ہ) (ع۔ ۱۔ مذ) گانے کی آواز۔ سرود۔ نغمہ۔ سُراپ۔

نُشْرِہ تُوَال۔ (ن۔ ۱۔ مذ) نغمہ سننے والوں سے گانے والا۔ معنی۔

نُشْرِہ۔ (ن۔ ش۔ ہ) (ع۔ ۱۔ مذ) نُشْرے میں سرشار۔ بدست۔ متوال۔ (۲) نُشْر اور جس سے نُشْر پیدا ہو۔

نُشْرِیْلِ۔ (ن۔ ش۔ ی۔ لی) (ع۔ ۱۔ صفت) نُشْر کی تازیت۔ متوالی۔ نُشْر میں سرشار۔

نُشْرِیْلِ اُنُصِیْلِ۔ (ن۔ ۱۔ صفت) خمار آلود آنکھیں۔ مست آنکھیں۔

نُشْرِیْمِن۔ (ن۔ ش۔ ی۔ م۔ ن) (ع۔ ۱۔ مذ) مسکن (۲) اُشْیَا۔ گھونٹلا۔

نُشْرِیْمِن کرنا۔ (محاورہ) بسیرا کرنا۔ گھونٹلانانا۔

نُشْرِیْمِن گاہ۔ (ن۔ ۱۔ صفت) خلوت گاہ۔ آرام گاہ۔

نُشْرِیْن۔ (ن۔ ش۔ ی۔ ن) (ع۔ ۱۔ صفت) فارسی مصدر نُشْرِیْن کا صیغہ امر۔ جو اسم کے بعد آ کر اسم فاعل بنا دیتا ہے۔ بیٹھنے والا کے معنی دیتا ہے جیسے گوشہ نشین۔

نُشْرِیْنِی۔ (ن۔ ش۔ ی۔ نی) (ع۔ ۱۔ صفت) بیٹھنا۔ مرکبات میں مستعمل ہے جیسے تحت نشینی۔

ن۔ص۔

نُصْ۔ (ع۔ ۱۔ صفت) (۱) کمزور ہو کر پوچھنا۔ چھان بین کرنا (۲) ظاہر آشکار (۳) قطعی حکم۔ ناطق حکم (۴) قرآن پاک کی وہ آیتیں جو صاف اور صریح ہوں۔ (۵) وہ کلام جو واضح اور صاف ہو۔ جمع۔ نُصُوْح۔

(۳) حاصل - میسر (م) جس کے مقدر میں کوئی بات ہو۔ مرکبات میں استعمال ہوتا ہے جیسے مرغان نصیب اور خوش نصیب۔
 نصیب آزمانا - (۱۶) محاورہ (۱۶) خوش قسمت پر چھوڑ دینا
 نصیب اعداء - دشمنوں کا گھر، دشمنوں کو نصیب ہو۔ دشمن کو میسر ہو۔
 نصیب اللہ (یا بگڑنا) - (۱۶) محاورہ قسمت کا پٹا کھانا۔ حالات کا بگڑ جانا۔
 نصیب پانا - (۱۶) محاورہ اپنی قسمت کا کھانا حاصل کرنا۔ اپنا حصہ لینا۔
 مقدر کا کھانا سناے آنا۔
 نصیب پلٹنا - (۱۶) محاورہ، حالات میں انقلاب زدہ ہونا۔ حالات کا بہتر ہو جانا۔
 نصیب بھرنے - (۱۶) محاورہ اچھے دن آنا۔ حالات کا سازگار ہونا۔
 نصیب (پچھوٹنا) بچھوٹ جانا - (۱۶) محاورہ، قسمت بگڑ جانا۔
 نصیب آنا۔
 نصیب اڑھا ہونا - (۱۶) محاورہ، بد قسمت ہونا۔
 نصیب جاگھنا - (۱۶) محاورہ، قسمت کھلنا۔ حالات کا سازگار ہونا۔
 نصیب چمکنا - (۱۶) محاورہ، تقدیر چمکانا۔ حالات کا سازگار ہو جانا۔
 نصیب خفہ - (ع) - (۱۶) مذ، سویا ہوا نصیب، بد قسمتی، بد بختی، بد نصیب۔
 نصیب دشمنوں کا کلڑ دانا، دشمنوں کو نصیب ہو۔ دشمن کو میسر ہو۔
 نصیب سو جانا - (۱۶) محاورہ، بد قسمتی کا زمانہ ہونا۔
 نصیب سے - (۱) تالیق فعل، قسمت سے۔ خوش قسمتی اور بد قسمتی دونوں کے لیے بولا جاتا ہے۔
 نصیب سپدھا ہونا - (۱۶) محاورہ، قسمت یاد اور نصیب کا کھانا - (۱۶) مذ، مقدر، مقوم، نوشتہ۔
 نصیب رکھل جانا، کھلنا - (۱۶) محاورہ، قسمت اچھی ہونا۔ حالات کا بہتر ہونا۔
 نصیب کی شامت - (۱۶) مذ، بد قسمتی، بد بختی۔
 نصیب کی قسم کھانا - (۱۶) محاورہ کسی کی خوش قسمتی کی قسم کھانا۔
 نصیب کہا دکھانا ہے - (۱۶) محاورہ آئندہ کہا پیش آتا ہے۔
 نصیب لڑانا - (۱۶) محاورہ قسمت آزمائی کرنا۔ کرشمہ کرنا۔
 نصیب لڑنا - (۱۶) محاورہ، تقدیر یاد اور ہونا۔ حالات بہتر ہونا۔
 نصیب میں لکھا ہونا - (۱۶) محاورہ قسمت میں ہونا۔ نوشتہ تقدیر ہونا۔
 نصیب نہ ہونا - (۱۶) محاورہ، حاصل نہ ہونا، نتیجہ نہ ہونا۔
 نصیب ہونا - (۱۶) محاورہ، حاصل ہونا، میسر ہونا، دستیاب ہونا۔
 نصیب یاد اور ہونا - (۱۶) محاورہ، خوش قسمت ہونا۔
 نصیبوں پر سچ لڑنا - (۱۶) محاورہ، مقدر خراب ہو جانا، قسمت بگڑ جانا۔
 نصیبوں خلا - (۱۶) صف، بد قسمت، بد طالع، بد بخت۔
 نصیبوں جلی - (۱۶) مذ، بد قسمت، گورت، بد نصیب، گورت۔
 نصیبوں سے - (۱) تالیق فعل، قسمت سے، نصیب سے۔
 نصیبوں کا ستارہ چمکنا - (۱۶) محاورہ، اقبال کا زمانہ ہونا۔ حالات بہتر ہونا۔
 نصیبوں کو دعا دو - (۱۶) محاورہ، تقدیر کا احسان مانو۔ قسمت کے

شکر گزار ہو۔ قسمت کا لکھا پورا ہونا۔
 نصیبوں کو روٹنا - (۱۶) محاورہ، بد قسمتی کی شکایت ہونا۔
 نصیبوں کی خوبی - (۱۶) مذ، (ظننا، بد نصیبی، بد بختی، شامت۔
 نصیبوں کے بدلے ریکانی کھیر ہو گیا دلہا - (۱۶) محاورہ، قسمت کی بد نصیبی کا کھاد اور پھینکا کھاد۔
 نصیبوں میں ہونا - (۱۶) محاورہ، تقدیر میں ہونا۔
 نصیبہ (ن) - صی، (ع) - (۱) مذ، قسمت، نصیب، تقدیر۔
 نصیبہ بچ جانا - (۱۶) محاورہ، تقدیر اچھی ہونا۔ اچھے دن آنا، بد قسمت وقت آنا۔
 نصیبہ سو جانا - (۱۶) محاورہ، قسمت بگڑ جانا۔
 نصیبہ کا دشمنی - (۱۶) مذ، خوش قسمت، بلند اقبال۔
 نصیبہ کا سکندر - (۱۶) مذ، کمال بلند اقبال، بخت اور بخت۔
 نصیبہ اور - (۱۶) مذ، قسمت والا، جھاگوان، خوش قسمت۔
 نصیبہ (ن) - صی، خست، (ع) - (۱) مذ، پند، اچھی صلاح نیک مشورہ، اچھی بات۔
 نصیبت آمیز - (ع) - (۱) مذ، وہ بات جس میں نیک مشورہ شامل ہو، (۲) عبرت والے دلائل بات۔
 نصیبت بلقمان آموختن - (ع) - (۱) مذ، شل، جانتے دلے کو کوئی بات بتانا۔
 نصیبت پانا - (۱۶) محاورہ، نصیبت حاصل کرنا، عبرت پکڑنا، ہدایت پانا، سزا پانا، پاداش ملنا۔
 نصیبت پزیر - (ع) - (۱) مذ، نصیبت قبول کرنے والا، نیک مشورے کو مان لینے والا۔
 نصیبت دینا - (۱۶) محاورہ، (۱) سمجھانا، نیک بات بتانا، تنبیہ کرنا۔
 نصیبت کے نا - عبرت دینا۔
 نصیبت قبول کرنا - (۱۶) محاورہ کسی کی اچھی بات کو مان لینا۔
 نصیبت نامہ - (ع) - (۱) مذ، وہ تحریر جس میں پند و نصائح تحریر ہوں۔
 نصیبت ہونا - (۱۶) محاورہ، بھلائی کی بات حاصل ہونا، (۲) تنبیہ ہونا، کان ہونا، عبرت ہونا۔
 نصیر - (ن) صی، (ع) - (۱) مذ، مدد کرنے والا، معاون، دوست، جمع - انصار۔
 نصیری - (ن) صی، (ع) - (۱) مذ، حضرت علیؑ کو خدا ماننے والا (۲) شیدائی، جان نثار۔

ن - ص

نصیارت - (ن) صی، رت بلاع - (۱) مذ، آواز کی - آب داری چمک دکھ لفتح - (ع) - (۱) مذ، میوے کی پھل کی، اطباء کی اصطلاح میں خلیفہ

کارتیق یا علیظ ہو کر نکلتا۔
نصیر۔ (ع۔ ف۔ آب دار۔ تازہ ۲) سونا۔ زر۔

ن۔ ط

نطق۔ (ع۔ ۱۔ مذ) ۱) چڑے کا بچھونا (۲) چڑے کا دسترخواں (۳) چڑے کا گھڑا۔

نطقہ۔ (نطق۔ ف۔ ع۔ ۱۔ مرث) ۱) صاف شفاف پانی (۲) منی (۳) اولاد۔
نطقہ لے، نا تحقیق (ع۔ ۱۔ مذ) ۱) حرامی وہ شخص جس کی نسبت یہ معلوم نہ ہو کہ اس کا باپ کون ہے (۲) بدھل۔ بد ذات۔ بید شریعت۔
نطقہ دھمنا، قرار پانا۔ (ع۔ ۱۔ محاورہ) محل ہونا۔ پیت میں بچہ پڑنا۔
نطقہ محرطم۔ (ع۔ ۱۔ صفت) شرابی۔ حرامی۔
نطق۔ (ع۔ ۱۔ مذ) ۱) گویائی۔ بولنے کی قوت (۲) بات۔ گفتگو۔
نطاق۔ (ع۔ ۱۔ مذ) کر کا پڑنا۔

نطول۔ (ن۔ ط۔ ۱۔ مذ) ۱) دھار مارنے یا چھڑکنے کا پانی۔ دواؤں کا کوش دیا، جو پانی جس سے دھارتے ہیں۔

ن۔ ظ

نظار۔ (نظ۔ ع۔ ۱۔ مذ) ۱) نظر کرنے والے۔ دیکھنے والے۔
نظارت۔ (نظ۔ ع۔ ۱۔ مذ) ۱) دیکھنا (۲) محافظت۔ نجات (۳) ناظر کا حکم اور دفتر۔

نظارت پیشہ۔ (ع۔ ۱۔ مذ) ۱) گھمانا۔ ناظر (۲) خواجہ سرا۔
نظاری۔ (نظ۔ ع۔ ۱۔ مذ) ۱) نظارہ۔ دیدار۔ نظارہ بازی۔ تماشہ بینی۔

نظارہ۔ (نظ۔ ع۔ ۱۔ مذ) ۱) دیکھنا۔ نظر ڈالنا (۲) نظریاتی دیدار۔ حدشن (۳) نظر۔ جیون۔

نظارہ باز۔ (ع۔ ۱۔ صفت) نظر بازی کرنے والا۔ تارنے والا۔

نظارہ بازی۔ (ع۔ ۱۔ صفت) نظر بازی گھورا گھاسی۔

نظارہ کرنا۔ (ع۔ ۱۔ صفت) دیکھنا۔

نظارہ مارنا۔ (ع۔ ۱۔ محاورہ) دیکھنا۔ گھورنا۔ تاکن جھانکنا۔

نظافت۔ (نظ۔ ع۔ ۱۔ صفت) ۱) صاف۔ ۲) پاکیزگی۔ صفائی۔

نظام۔ (نظ۔ ع۔ ۱۔ مذ) ۱) مرتبوں کی لڑی (۲) چلنیاد (۳) سلسلہ ترتیب (۴) بندوبست۔ انتظام (۵) آراستگی (۶) نواب دکن کا موروثی خطاب (۷) طریقہ (۸) صلاح کار (۹) ترتیب۔

نظام الاوقات۔ (ع۔ ۱۔ مذ) بروگرام۔

نظام بلیغوس۔ (ع۔ ۱۔ مذ) حکم بلیغوس کا نظام جس میں زمین کو مرکز قرار دیا گیا ہے اور اس کے گرد سورج۔ چاند۔ ستاروں کو

شگردش کرتے مانا گیا ہے۔

نظام شمسی۔ (ع۔ ۱۔ مذ) سورج کے گرد سیاروں کی گردش کا طریقہ۔

نظامت۔ (نظ۔ ع۔ ۱۔ صفت) ۱) ناظم کا عہدہ۔ ناظم کا کام (۲) انتظام۔ بندوبست (۳) محکمہ۔ دفتر ڈائریکٹوریٹ۔

(Directorate)

نظامی۔ (نظ۔ ع۔ ۱۔ صفت) ۱) سلسلہ نظامیہ کا مرید جو کہ حضرت نظام الدین اولیائے منسوب ہے (۲) نظام الملک وزیر سے منسوب (۳) فارسی کے مشہور شاعر نظامی گنجوی۔

نظامیہ۔ (نظ۔ ع۔ ۱۔ صفت) ۱) بندگی کا قدیم یونیورسٹی (۲) جنگی فوج (۳) تصوف کا ایک سلسلہ جو حضرت نظام الدین اولیائے منسوب ہے۔

نظار۔ (نظ۔ ع۔ ۱۔ مذ) ۱) نظیر کی جمع۔ سرداران قوم جن کے لوگ دست نگریوں (۲) ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے فیصلے۔ اردو میں بطور نظیر کی جمع کے مستعمل ہے (۳) مثالیں۔

نظر۔ (نظ۔ ع۔ ۱۔ صفت) ۱) بغور دیکھنا (۲) نگاہ۔ آنکھ (۳) بصارت (۴) غور۔ تامل (۵) نگرانی۔ دیکھ۔ بھال (۶) تمیز۔ جانچ پرکھ (۷) توجہ۔ مہربانی (۸) معاینہ۔ تجزیہ (۹) امید۔ توقع (۱۰) سمجھوت پریت کا اثر۔ آسیب (۱۱) تمیز۔ شناخت۔ جانچ۔ پرکھ (۱۲) توجہ۔ مہربانی (۱۳) معاینہ (۱۴) اندازہ۔ تجزیہ (۱۵) امید۔ توقع (۱۶) سمجھوت پریت کا اثر۔ آسیب۔

نظر آنا۔ (ع۔ ۱۔ محاورہ) دکھائی دینا۔ سوجھنا (۲) دھیان میں آنا۔

نظر آنا۔ (ع۔ ۱۔ محاورہ) صدقہ دینا۔ کسی عمل یا منتر سے بُری نظر کا اثر دور کرنا۔

نظر اٹھانا۔ (ع۔ ۱۔ محاورہ) آنکھ اُچی کرنا۔ آنکھ اٹھانا۔

نظر اٹھ جانا۔ (ع۔ ۱۔ محاورہ) اتفاقاً نگاہ پڑ جانا۔ اتفاقاً دیکھ لینا۔

نظر التفات۔ (ع۔ ۱۔ صفت) توجہ (۲) مہربانی۔

نظر اللہ پر رکھنا (کوننا)۔ (ع۔ ۱۔ محاورہ) خدا پر بھروسہ ہونا۔ مالوس نہ ہونا۔

نظر انداز کرنا۔ (ع۔ ۱۔ صفت) توجہ نہ کرنا (۲) نا پسند کرنا (۳) نامنظور کرنا (۴) نگاہ سے گزانا۔

نظر اندازی۔ (ع۔ ۱۔ صفت) ۱) جانچ (۲) چشم پوشی کرنا۔ دیکھی اُن دیکھی کر دینا۔

نظر باز۔ (ع۔ ۱۔ صفت) ۱) نیک و بد پہیے والے۔ تاملینے والا۔ بھانپ لینے والا (۲) حسن پرست۔

نظر بازی۔ (ع۔ ۱۔ صفت) ۱) گھورا گھوری۔ تاک جھانک۔

نظر باندھنا۔ (ع۔ ۱۔ محاورہ) نظر بندی کرنا۔ شہدہ بازی۔

نظر بچانا (بچا جانا)۔ (ع۔ ۱۔ محاورہ) ۱) آنکھ چراتا۔ کترانا۔ بچ کر نکل جانا (۲) نالنا۔

نظر بند۔ (ع۔ ۱۔ صفت) ۱) بُری نظر (۲) بُری نظر کا اثر۔

نظر بد لانا۔ (ع۔ ۱۔ محاورہ) ۱) سلوک میں فرق آنا (۲) ارادہ بدلنا۔ نیت بدلنا۔ نظر بڑھنا۔ (ع۔ ۱۔ محاورہ) دیکھنے کی قوت زیادہ ہونا۔ بصارت تیز ہونا۔

نظر بد لانا۔ (ع۔ ۱۔ محاورہ) دیکھنے کی قوت زیادہ ہونا۔ بصارت تیز ہونا۔

نظر بد لانا۔ (ع۔ ۱۔ محاورہ) دیکھنے کی قوت زیادہ ہونا۔ بصارت تیز ہونا۔

نظر بد لانا۔ (ع۔ ۱۔ محاورہ) دیکھنے کی قوت زیادہ ہونا۔ بصارت تیز ہونا۔

نظر بد لانا۔ (ع۔ ۱۔ محاورہ) دیکھنے کی قوت زیادہ ہونا۔ بصارت تیز ہونا۔

نظر بد لانا۔ (ع۔ ۱۔ محاورہ) دیکھنے کی قوت زیادہ ہونا۔ بصارت تیز ہونا۔

نظر بد لانا۔ (ع۔ ۱۔ محاورہ) دیکھنے کی قوت زیادہ ہونا۔ بصارت تیز ہونا۔

نظر بد لانا۔ (ع۔ ۱۔ محاورہ) دیکھنے کی قوت زیادہ ہونا۔ بصارت تیز ہونا۔

نظر بد لانا۔ (ع۔ ۱۔ محاورہ) دیکھنے کی قوت زیادہ ہونا۔ بصارت تیز ہونا۔

نظر بد لانا۔ (ع۔ ۱۔ محاورہ) دیکھنے کی قوت زیادہ ہونا۔ بصارت تیز ہونا۔

نظر بد لانا۔ (ع۔ ۱۔ محاورہ) دیکھنے کی قوت زیادہ ہونا۔ بصارت تیز ہونا۔

نظر بد لانا۔ (ع۔ ۱۔ محاورہ) دیکھنے کی قوت زیادہ ہونا۔ بصارت تیز ہونا۔

نظر بند - (ع - ف - ۱ - مت) وہ شخص جسے عدالت میں مقدمہ چلانے اور مزادینے بغیر قید میں رکھا جائے یا اس کی نقل و حرکت پر پابندی لگا دی جائے۔

نظر بند کرنا - (ع - ف - ۱ - مت) قید و حراست میں رکھنا۔ قیدی بنانا۔

نظر بندی - (ن - ۱ - مت) ۱۱۔ قید و حراست (۲)۔ شیعہ - جاوگری۔

نظر بھر کر دیکھنا - (۱۲ - محاورہ) خوب غور سے دیکھنا۔ سیر ہو کر دیکھنا۔

نظر بچھ میں اثر کرتی ہے - (۱ - مثل) نظر کا اثر بچھ جیسی سخت چیز پر بھی ہو جاتا ہے۔

نظر پتھرا جانا - (۱۲ - محاورہ) بینائی جاتی رہنا۔ مرتے وقت آنکھوں کا بے جان ہونا۔ نگاہ کا ایک ہی جگہ ٹھہر جانا۔

نظر (نظروں) پر چڑھنا - (۱۳ - محاورہ) ۱۱۔ دل کو بھانا پسند آنا۔ وقت پانا (۲)۔ ذیل ہونا۔ ٹھیک ہونا۔ دشمنی کی نظر سے دیکھا جانا (۳)۔ چھٹا - اندازہ کیا جانا۔ نگاہ میں ٹھہرنا (۴)۔ نظر لگ جانا۔

نظر لڑنا (بڑھانا) - (۱۶ - محاورہ) ۱۱۔ دیکھنے میں آنا (۲)۔ دکھائی دینا۔ معلوم ہونا۔

نظر بچھ جانا (بچھنا) - (۱۶ - محاورہ) ۱۱۔ ناراض ہو جانا (۲)۔ بے ترتیب ہو جانا۔

نظر پھسنا - (۱۱ - محاورہ) نگاہ نہ ٹھہرنا۔ کسی چیز کا نہایت صاف و شفاف ہونا۔

نظر پھانسا - (۱۱ - محاورہ) غور سے شناخت کر لینا۔

نظر پھیر لینا - (۱۱ - محاورہ) بے توجہی کرنا۔ بے مروتی کرنا (۲)۔ ادھر ادھر نگاہ دوڑانا۔

نظر پھینکتا - (۱۱ - محاورہ) نگاہ ڈالنا۔ دیکھنا۔

نظر پیدا کرنا - (۱۱ - محاورہ) جانچ کی صلاحیت حاصل کرنا۔ قابلیت پیدا کرنا۔ ملکہ حاصل کرنا۔

نظر تازہ لینا - (۱۳ - محاورہ) نگاہ سے بچان لینا۔ نظر سے اندازہ کر لینا۔

نظر تیز بڑھانا - (۱۱ - محاورہ) غصہ سے دیکھا جانا۔

نظر بھرتا - (۱۱ - محاورہ) نظر جتنا نگاہ قائم ہوتا۔

نظر ثانی - (ف - ۱ - مت) دوبارہ دیکھنا۔ ترمیم یا تصحیح کی غرض سے دوبارہ دیکھنا۔

نظر ثانی کرنا - (۱ - مص مرکب) ۱۱۔ پرتال کرنا بچھ دیکھنا (۲)۔ ترمیم و تصحیح کی غرض سے دوبارہ دیکھنا۔

نظر جلانا - (۱۱ - محاورہ) نظر بد کا دغیہ۔ کپڑے کو تھکے کی سیاہی مل کر اوتیل میں بیگو کر پھار کے سامنے چلاتے ہیں۔

نظر جتنا - (۱۳ - محاورہ) نگاہ ٹھہرنا۔ بغور دیکھنے جانا۔

نظر جھانڈنا - (۱۱ - محاورہ) افسوس یا دعا پڑھ کر نظر بد کے دغیہ کا عمل کرنا۔

نظر جھپکتا - (۱۳ - محاورہ) کسی چمکدار چیز کو دیکھ کر آنکھوں کا چڑھنا۔

نظر چار سو ہونا - (۱۱ - محاورہ) چاروں طرف نگاہ رکھنا۔ ہوشیار رہنا۔ چوتھا ہونا۔

نظر چرانا - (۱ - محاورہ) ۱۱۔ نظر بچانا۔ کترانا۔ نظر ملا کر نہ دیکھنا (۲)۔ کام سے پہلو ہتی کرنا۔

نظر چڑھنا - (۱۱ - محاورہ) ۱۱۔ خیال میں آنا۔ قدر پانا (۲)۔ پرکھا جانا (۳)۔ پسند آنا۔ دل کو بھانا (۵)۔ نظر بد لگنا (۶)۔ متعزز ہونا۔ وقت پانا۔ ہا، حقیر ہونا۔ مرسوا ہونا۔

نظر خدا پر ہونا - (۱۱ - محاورہ) مایوسی کا عالم ہونا۔

نظر خیر ہونا - (۱ - محاورہ) ۱۱۔ درشن اور جمیل چیز دیکھ کر نگاہ چڑھنا۔

نظر دروست ہونا - (۱۲ - محاورہ) ۱۱۔ تھورا بچھ ہونا۔

نظر دو چار ہونا - (۱۱ - محاورہ) نگاہ نگاہ کے سامنے ہونا۔ سامنے سامنے ہونا۔

نظر دوڑانا - (۱ - محاورہ) ۱۱۔ تلاش کرنا۔ چاروں طرف دیکھنا۔ ادھر ادھر دیکھنا (۲)۔ غور کرنا۔ دیکھنا۔ جائزہ لینا۔

نظر دوڑنا - (۱۳ - محاورہ) نگاہ کا تیزی سے دیکھنا۔

نظر گولسا - (۱۱ - محاورہ) نگاہ کرنا۔ دیکھنا۔ معائنہ کرنا۔ سرسری نظر سے دیکھنا۔

نظر رکھنا - (۱۱ - محاورہ) توجہ رکھنا۔ محبت کی نظر سے دیکھنا۔ عاشقانہ نگاہ ڈالنا (۲)۔ خبر رکھنا۔ نگرانی کرنا (۳)۔ ارادہ کرنا۔ نیت رکھنا۔ (۴)۔ شناخت رکھنا۔ توجہ رکھنا (۵)۔ امید رکھنا۔ توقع رکھنا۔

نظر سے - (۱۶ - تابع فعل) ۱۱۔ خیال کر کے۔

نظر سے اترنا (اگرنا) - (۱۱ - محاورہ) غضب ہونا۔ بے وقت ہونا۔ ذلیل ہونا۔ بے عزت ہونا۔

نظر سے اُدھل جانا - (۱۱ - محاورہ) سامنے نہ ہونا۔ سامنے سے ہٹنا۔

نظر سے ٹپکنا - (۱۱ - محاورہ) نگاہ سے ظاہر ہونا۔

نظر سے گزرتا - (۱۱ - محاورہ) ذیل دے تدر ہونا۔ حقیر سمجھا جانا۔

نظر سے گزرتا - (۱۱ - محاورہ) تجربہ ہونا (۲)۔ دیکھا جانا۔

نظر سے نظر ملنا - (۱۱ - محاورہ) روبرو ہونا۔ آنکھیں چار ہونا۔ آنکھوں سے آنکھ ملنا۔

نظر سے نکل جانا (نکلنا) - (۱۱ - محاورہ) ۱۱۔ دیکھنے میں آنا۔ آنکھوں کے سامنے سے گذرنا (۲)۔ نظر سے غائب ہونا۔

نظر سیدھی ہونا - (۱۱ - محاورہ) مہربانی کی نظر ہونا۔

نظر غلط اندازہ - (ف - ص) ایسی نگاہ سے دیکھنا کہ معلوم نہ ہو سکے کہ دیکھ رہا ہے۔ عاشق کو دھوکا دینے والی مستحق کی نگاہ۔

نظر فریب - (ع - ف - ۱ - مت) نظر کو دھوکا دینے والا (۲)۔ لہجانے والی نظر۔

نظر کا کھانا - (۱۱ - محاورہ) ۱۱۔ نظر لگ جانا۔ بد نظری سے ضرر پہنچنا۔

نظر کرنا - (۱۱ - محاورہ) ۱۱۔ اشارہ کرنا (۲)۔ توجہ کرنا۔

نظر کے سامنے رکھنا - (۱۱ - محاورہ) آنکھوں سے دور نہ ہونے دینا۔

نظر کیسا اتر - (ف - ۱ - مت) فیض پہنچانے والی نگاہ۔

نظر گاہ - (ف - ۱ - مت) تماشا گاہ۔ سیر گاہ۔

نظر گزر - (ف - ۱ - مت) ۱۱۔ نظر بد کا اثر۔ بھگوت پریت کا سایہ (۲)۔ وہ چیز

جو نظر بد کا اثر نازل کرنے کے لیے لگا دیتے ہیں۔
 نظر گزرا کا ٹھیکہ - ۱۰ - (۱۰ - ۱۱) کاہل کا ٹھیکہ جو عورتیں نظر بد کے دفعیہ کے لیے بچوں کے ماتھے پر لگاتی ہیں۔
 نظر گزنا - ۱۱ - (۱۱ - ۱۲) محاورہ (نگاہ کا کسی جگہ مرکوز ہو جانا۔
 نظر لڑ جانا - ۱۲ - (۱۲ - ۱۳) محاورہ (کٹنا سناٹا ہو جانا۔ عشق ہو جانا۔
 نظر لگا - ۱۳ - (۱۳ - ۱۴) صفت جو شخص یا چیز جس پر نظر بد کا اثر ہو
 نظر لگانا - ۱۴ - (۱۴ - ۱۵) محاورہ (بڑی نظر کا اثر ہونا۔
 نظر (لگ جانا) لگنا - ۱۵ - (۱۵ - ۱۶) محاورہ (بڑی نظر کا اثر ہو جانا۔ بھرت
 پیرت کا سایہ ہونا۔
 نظر مارنا - ۱۶ - (۱۶ - ۱۷) محاورہ (آنکھ مارنا۔ اشارہ کرنا۔
 نظر ملانا - ۱۷ - (۱۷ - ۱۸) محاورہ (آنکھ سامنے کرنا۔ آنکھ ملانا۔
 نظریں - ۱۸ - (۱۸ - ۱۹) (تالیق فعل) (۱) نگاہ میں۔ (۲) آنکھ میں (۳) مرد پر جو۔ سامنے
 دھیان میں۔ (۴) خیال میں (۵) شناخت میں۔ (۶) تیز میں (۷) دیکھنے کی
 نظریں آنا - ۱۹ - (۱۹ - ۲۰) محاورہ (۱) معلوم ہونا۔ (۲) سمجھائی دینا (۳) دھیان میں آنا۔ خیال
 میں آنا۔ (۴) ٹوک میں آنا۔ نظر بد کا اثر ہونا۔
 نظر (نظروں) میں بھانپنا - ۲۰ - (۲۰ - ۲۱) محاورہ (نگاہوں میں تال لینا۔
 نظر (نظروں) میں بھرت ہونا۔
 نظریں بھی جانا (پھرنا) - ۲۱ - (۲۱ - ۲۲) محاورہ (باعزت ہونا۔ وقعت ہونا۔
 نظر (نظروں) میں تال لینا - ۲۲ - (۲۲ - ۲۳) محاورہ (نگاہ سے بھاہ لینا۔
 نظریں تلتا - ۲۳ - (۲۳ - ۲۴) محاورہ (نگاہ میں جا بجا جانا۔ دھیان میں ہونا۔
 نظریں ٹولنا - ۲۴ - (۲۴ - ۲۵) محاورہ (نگاہ سے جا بچ لینا۔ اندازہ کرنا۔
 نظریں ٹھہرنا - ۲۵ - (۲۵ - ۲۶) محاورہ (کسی کا نگاہ میں بچ جانا۔ پسند کر لینا۔
 نظر (نظروں) میں جا بچ لینا - ۲۶ - (۲۶ - ۲۷) محاورہ (اندازہ کر لینا۔
 نظریں جھپنا - ۲۷ - (۲۷ - ۲۸) محاورہ (پسند آنا۔ جھلا معلوم ہونا۔
 نظر (نظروں) میں جھٹنا - ۲۸ - (۲۸ - ۲۹) محاورہ (باوقفت ہونا۔
 نظر (نظروں) میں جہان اندھیرا ہونا - ۲۹ - (۲۹ - ۳۰) محاورہ (بہت
 زیادہ غم یا مصیبت ہونا۔
 نظریں چبھنا - ۳۰ - (۳۰ - ۳۱) محاورہ (بڑا معلوم ہونا۔ جرا لگنا۔
 نظر (نظروں) میں چڑھنا - ۳۱ - (۳۱ - ۳۲) محاورہ (بہت پسند آنا۔
 نظر (نظروں) میں خفیہ ہونا - ۳۲ - (۳۲ - ۳۳) محاورہ (دل سے اتر جانا۔ قدر
 کو چھپنا۔ بے وقعت ہونا۔
 نظر (نظروں) میں خار ہونا - ۳۳ - (۳۳ - ۳۴) محاورہ (بڑا لگنا ناگوار ہونا۔
 نظر (نظروں) میں رکھنا - ۳۴ - (۳۴ - ۳۵) محاورہ (زیر نگرانی رکھنا۔ دھیان
 میں رکھنا۔ نگاہ میں رکھنا۔
 نظریں رہنا - ۳۵ - (۳۵ - ۳۶) محاورہ (سامنے رہنا۔ خیال یا دھیان میں رہنا۔
 نظر (نظروں) میں سبک ہونا - ۳۶ - (۳۶ - ۳۷) محاورہ (بے وقعت ہونا۔
 نظر (نظروں) میں سمٹنا - ۳۷ - (۳۷ - ۳۸) محاورہ (پیارا لگنا۔ مقبول ہونا۔
 صاحبِ وقعت ہونا۔
 نظر (نظروں) میں کھنکھنا - ۳۸ - (۳۸ - ۳۹) محاورہ (اچھا لگنا۔ پسند آنا۔

نظر (نظروں) میں کھنکھنا - ۱۰ - (۱۰ - ۱۱) محاورہ (بڑا معلوم ہونا۔ ناگوار ہونا۔
 ناقابل برداشت ہونا۔
 نظر (نظروں) میں ہونا - ۱۱ - (۱۱ - ۱۲) محاورہ (خیال میں ہونا۔ یاد ہونا۔
 ذہنی میں ہونا۔
 نظر نہ آنا - ۱۲ - (۱۲ - ۱۳) محاورہ (دکھائی نہ دینا۔ ناپید ہونا۔
 نظر نہ ٹھہرنا - ۱۳ - (۱۳ - ۱۴) محاورہ (کسی چیز کی آب و تاب کی وجہ سے نظر قائم نہ
 رہنا۔ بچا چوند ہونا۔
 نظر نہ چڑھنا - ۱۴ - (۱۴ - ۱۵) محاورہ (پسند نہ آنا۔ جھلا لگنا۔ اچھا معلوم نہ ہونا۔
 نظر نہ ملنا - ۱۵ - (۱۵ - ۱۶) محاورہ (آنکھ سامنے نہ ہونا۔ شرم کی وجہ سے آنکھ اٹھا
 کربات نہ کر سکتا۔
 نظر نہ ہونا - ۱۶ - (۱۶ - ۱۷) محاورہ (توجہ نہ ہونا۔ پردہ نہ ہونا۔
 نظر والا - ۱۷ - (۱۷ - ۱۸) محاورہ (۱) وہ جس کو نظر لگی ہو (۲) اہل نظر صاحبِ پیش
 نظر پایا - ۱۸ - (۱۸ - ۱۹) صفت وہ شخص جس کی نظر سے نقصان پہنچے۔ ندیدہ۔
 نظر پائی - ۱۹ - (۱۹ - ۲۰) صفت (۱) وہ عورت جس کی نظر سے نقصان پہنچے۔
 (۲) نظر لگانے والی۔ ندیدی۔
 نظر ہو جانا - ۲۰ - (۲۰ - ۲۱) محاورہ (نظر بد کا اثر ہو جانا۔ نظر لگ جانا۔ جی پری کا سایہ
 ہو جانا۔ کسیب کا اثر ہونا۔
 نظر ہونا - ۲۱ - (۲۱ - ۲۲) محاورہ (۱) بچپان ہونا۔ تمیز ہونا۔ پرکھ ہونا۔ جا بچ ہونا (۲) نظر
 لگنا (۳) توجہ ہونا۔ خیال ہونا۔ دھیان ہونا (۴) علم نجوم میں ایک ستارے
 کا دوسرے ستارے پر اثر انداز ہونا (۵) وقوع ہونا۔
 نظر اچانا (نظر ایا جانا) - ۲۲ - (۲۲ - ۲۳) محاورہ (بڑی نظر کا اثر ہونا۔ (۲۳)
 نظر لگ جانا
 نظروں میں غائب ہو جانا - ۲۳ - (۲۳ - ۲۴) محاورہ (آنکھوں کے سامنے کسی
 چیز کا جاتے رہنا۔ دیکھتے ہی دیکھتے کسی چیز کا گم ہو جانا۔
 نظروں میں کھنکھنا - ۲۴ - (۲۴ - ۲۵) محاورہ (حق ہونا۔ بے قدر ہونا۔ وقعت نہ ہونا۔
 نظروں (نظروں) میں (۱) تالیق فعل (نگاہوں کے سامنے۔ آنکھوں میں۔
 آنکھوں کے سامنے۔
 نظروں میں غبار چھا جانا - ۲۵ - (۲۵ - ۲۶) محاورہ (دھندلا نظر آنا۔
 نظروں (نظروں) میں کھائے جانا - ۲۶ - (۲۶ - ۲۷) محاورہ (آنکھوں سے غصہ اور
 نفی کا اظہار کرنا۔ لال پھیل آنکھیں دکھانا (۲) مشوق کا اس طرح دیکھنا
 کہ عاشق کے دل پر خاص اثر ہو۔
 نظریں چھا کر دیکھنا - ۲۷ - (۲۷ - ۲۸) محاورہ (نگاہ بجا کر دیکھنا۔ چھپ چھپ کر دیکھنا
 کنکھیوں سے دیکھنا۔
 نظریں چڑانا - ۲۸ - (۲۸ - ۲۹) محاورہ (نظریں بچانا۔ اغماض رہنا۔
 نظری (۱) دن۔ (۲) روزی (۳) صفت (۱) بدیہی کا مقابل نہ پسند۔ نا منظور۔
 (۲) ایماں بے وقعت نظر سے گرا ہوا۔ ناقص (۳) خیالی۔ قیاسی (۴)
 وہ علم جس میں موجودات کے تصور سے بحث کی جاتی ہے
 نظریے - ۲۹ - (۲۹ - ۳۰) صفت (۱) ایک نگاہ۔
 نظریے خوش گزریے - ۳۰ - (۳۰ - ۳۱) صفت (۱) جلدی سے گزر جانے والی نگاہ
 اترتی ہوئی نظر۔ سرسری نظر۔

نعرہ مارنا۔ (۱۷) محاورہ، لککارنا۔ زور کی آواز نکالنا۔ پکارنا (۲) فریاد کرنا۔ شور کرنا۔

نعش۔ (۱) ع۔ (۲) ممت، (۱) تالوت۔ (۲) اتمی، (۲) لاش۔ (۳) میت۔

نعش اٹھنا۔ (۱۷) محاورہ، جنازہ اٹھنا۔

نعل۔ (۱) ع۔ (۲) ممت، (۱) جوتا۔ نعش۔ پاپوش (۲) گھوڑے بل وغیرہ کے کھریں لگانے کا ابھنی حلقہ (۳) لوہا جو جوتی کی اڑھی میں مضبوطی کی غرض سے لگاتے ہیں (۴) خراج نذرانہ جو حاکم یا رئیس کو ادا کیا جائے۔

نعل باندھنا۔ (۱۱) محاورہ، جو پاؤں کے کھڑوں پر ابھنی حلقے جڑانا۔

نعل بند۔ (۱) ع۔ (۲) ممت، (۱) نعل باندھنے والا۔

نعل بندھی۔ (۱) ع۔ (۲) ممت، (۱) نعل باندھنے کا پیشہ (۲) نعل لگانے کی اُہرت۔

نعل بہا۔ (۱) ع۔ (۲) ممت، (۱) وہ خراج یا ٹیکس جو بطور نذرانہ ادا کیا جائے۔

نعل چوٹی۔ (۱) ع۔ (۲) ممت، (۱) کھڑی کی کھڑاؤں۔

نعل درآتش۔ (۱) ع۔ (۲) ممت، (۱) بے قرار۔ بے چین۔ مضطرب۔ گھبرا ہوا۔

نعل لگانا۔ (۱۷) محاورہ، لوبے کا حلقہ، جوتی کی اڑھی یا جو پاپوش کے ٹھم میں لگانا۔

نعلین۔ (۱) ع۔ (۲) ممت، (۱) نعل کا تینتہ جوڑا۔ دونوں جوتیاں۔ جوتوں کا جوڑا۔

نعلین تحت النعلین۔ (۱) ع۔ (۲) ممت، (۱) جوتوں کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھنا چاہیے تاکہ کوئی تجاڑے نہ چلے۔

نعلین در نعلین۔ (۱۷) محاورہ، جوتوں کو نبل میں دبا کر رکھنا چاہیے تاکہ چوری نہ ہو جائیں۔

نعم۔ (۱) ع۔ (۲) ممت، (۱) نعمت کی جمع۔ نعمتیں۔ اچھی چیزیں۔ اعلیٰ چیزیں۔ بخشش۔ عطا۔ لذیذ۔ اشیاء۔

نعم البدل۔ (۱) ع۔ (۲) ممت، (۱) اچھا بدلہ۔ نیک عوض۔

نعمت۔ (۱) ع۔ (۲) ممت، (۱) مال و دولت۔ ثروت (۲) بخشش۔ عطیہ (۳) لذیذ چیز۔ جمع و نعم۔ نعمات۔

نعمت الوان۔ (۱) ع۔ (۲) ممت، (۱) قسم قسم کی نعمتیں۔

نعمت پروردہ۔ (۱) ع۔ (۲) ممت، (۱) ناز میں پالا ہوا۔ عیش و آرام میں پوش پانا ہوا۔

نعمت خانہ۔ (۱) ع۔ (۲) ممت، (۱) کھانے پینے کا سامان رکھنے کی الماری یا ڈبہ۔ (۲) کھانا کھانے کا کمرہ۔

نعمت عظمیٰ۔ (۱) ع۔ (۲) ممت، (۱) بہت بڑی نعمت۔

نعمت غیر مقررہ۔ (۱) ع۔ (۲) ممت، (۱) وہ اچھی چیز جو غیر متوقع طور پر ملے۔ وہ دولت جس کے حصول کا امکان نہ ہو۔

نعمت کدہ۔ (۱) ع۔ (۲) ممت، (۱) نعمت کا گھر۔ بہشت۔

نعمت کی مال کا کلیجہ۔ (۱) ع۔ (۲) ممت، (۱) کوئی عمدہ چیز۔

نعمنا۔ (۱) ع۔ (۲) ممت، (۱) ناع، (۲) ممت، (۱) پودینہ۔

نظر آیات۔ (۱) ع۔ (۲) ممت، (۱) ری۔ (۲) بیات، (۱) ع۔ (۲) ممت، (۱) مسائل حکمی۔ اصول۔ قاعدے۔ تعلیمات۔ نظریہ کی جمع۔

نظر بانی۔ (۱) ع۔ (۲) ممت، (۱) ری۔ (۲) بیات، (۱) ع۔ (۲) ممت، (۱) منسوب بہ نظریات علم النظریات سے تعلق رکھنے والی شے۔ حکمی۔

نظر تہ۔ (۱) ع۔ (۲) ممت، (۱) ری۔ (۲) بیات، (۱) ع۔ (۲) ممت، (۱) منسوب بہ نظریہ فکر سے کام لیا جائے۔ تھیوری۔ اصول جمع۔ نظریات۔

نظر یہ ارتقا۔ (۱) ع۔ (۲) ممت، (۱) ری۔ (۲) بیات، (۱) ع۔ (۲) ممت، (۱) منسوب بہ نظریہ کہ جاندار چیزوں کو کسی نے موجودہ شکل میں خلق نہیں کیا ہے۔ بلکہ ہر شے بقائے اصلح اور

انتخاب کے اصول کے تحت بدلتی اور ترقی کرتی رہتی ہے۔

نظریہ اضافیت۔ (۱) ع۔ (۲) ممت، (۱) ری۔ (۲) بیات، (۱) ع۔ (۲) ممت، (۱) منسوب بہ نظریہ کہ زمان و مکان مطلق حقیقت نہیں۔ بلکہ اضافی حیثیت رکھتے ہیں۔

نظم۔ (۱) ع۔ (۲) ممت، (۱) لڑھی۔ (۲) مسک (۲) موزون۔ کلام۔ شعر (۳) نظم۔ (۱) ع۔ (۲) ممت، (۱) بندوبست۔ انتظام۔

نظم سبج (گستر)۔ (۱) ع۔ (۲) ممت، (۱) بندوبست۔ انتظام۔

نظم (سبج) گستر۔ (۱) ع۔ (۲) ممت، (۱) بندوبست۔ انتظام۔

نظم موعزی۔ (۱) ع۔ (۲) ممت، (۱) بندوبست۔ انتظام۔

نظم کائنات۔ (۱) ع۔ (۲) ممت، (۱) بندوبست۔ انتظام۔ حکومت کا قاعدہ۔

نظم کوہنا۔ (۱) ع۔ (۲) ممت، (۱) بندوبست۔ انتظام۔

نظیر۔ (۱) ع۔ (۲) ممت، (۱) بندوبست۔ انتظام۔

نظیر دینا۔ (۱) ع۔ (۲) ممت، (۱) بندوبست۔ انتظام۔

نظیف۔ (۱) ع۔ (۲) ممت، (۱) بندوبست۔ انتظام۔

ن - ع

نعت۔ (۱) ع۔ (۲) ممت، (۱) مدح۔ (۲) ثنا۔ تعریف و توصیف (۲) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں مدحیہ اشعار۔

نعت خوال۔ (۱) ع۔ (۲) ممت، (۱) مدح۔ (۲) ثنا۔ تعریف و توصیف (۲) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں مدحیہ اشعار۔

نعتیہ۔ (۱) ع۔ (۲) ممت، (۱) مدح۔ (۲) ثنا۔ تعریف و توصیف (۲) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں مدحیہ اشعار۔

نعتیہ کلام۔ (۱) ع۔ (۲) ممت، (۱) مدح۔ (۲) ثنا۔ تعریف و توصیف (۲) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں مدحیہ اشعار۔

نعرہ۔ (۱) ع۔ (۲) ممت، (۱) مدح۔ (۲) ثنا۔ تعریف و توصیف (۲) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں مدحیہ اشعار۔

نعرہ ہا و ہو۔ (۱) ع۔ (۲) ممت، (۱) مدح۔ (۲) ثنا۔ تعریف و توصیف (۲) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں مدحیہ اشعار۔

نعرہ کبیر۔ (۱) ع۔ (۲) ممت، (۱) مدح۔ (۲) ثنا۔ تعریف و توصیف (۲) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں مدحیہ اشعار۔

نعرہ حیدری۔ (۱) ع۔ (۲) ممت، (۱) مدح۔ (۲) ثنا۔ تعریف و توصیف (۲) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں مدحیہ اشعار۔

نعرہ زن۔ (۱) ع۔ (۲) ممت، (۱) مدح۔ (۲) ثنا۔ تعریف و توصیف (۲) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں مدحیہ اشعار۔

نعوذ - (ن - عوذ) (ع - مضارع) ہم پناہ مانگتے ہیں۔
 نعوذ بالعدہ - (ع - حکم پناہ) ہم خدا سے پناہ مانگتے ہیں۔ خدا کی پناہ۔ خدا
 پناہ سے اللہ محفوظ رکھے۔ اللہ امان میں رکھے۔
 نعوظ - (ع - ۱) مذ - شہوت۔ عضو تناسل کا کھلا ہونا۔ استاد کی - انتشار
 نعیم - (ن - عیم) (ع - ۱) مذ - نعمت۔ مال (۲) نیکی (۳) پیغمبر - رسائی
 (۴) لاڈ - پیار۔ ناز (۵) انعام میں ملی ہوئی چیز (۶) صاحب
 نعمت - نعمت والا۔

ن - ع

نعیم - (ن - عیم) (ع - ۱) مذ - شہوت۔ مال (۲) نیکی (۳) پیغمبر - رسائی
 (۴) لاڈ - پیار۔ ناز (۵) انعام میں ملی ہوئی چیز (۶) صاحب
 نعمت - نعمت والا۔
 نعیم - (ن - عیم) (ع - ۱) مذ - شہوت۔ مال (۲) نیکی (۳) پیغمبر - رسائی
 (۴) لاڈ - پیار۔ ناز (۵) انعام میں ملی ہوئی چیز (۶) صاحب
 نعمت - نعمت والا۔
 نعیم - (ن - عیم) (ع - ۱) مذ - شہوت۔ مال (۲) نیکی (۳) پیغمبر - رسائی
 (۴) لاڈ - پیار۔ ناز (۵) انعام میں ملی ہوئی چیز (۶) صاحب
 نعمت - نعمت والا۔

ن - ف

نفاخ - (ن - ف) (ع - ۱) مذ - نفخہ۔ ہوا کا ہلکا ہلکا ہونا۔
 نفاختا - (ن - ف) (ع - ۱) مذ - نفخہ۔ ہوا کا ہلکا ہلکا ہونا۔
 نفاختی - (ن - ف) (ع - ۱) مذ - نفخہ۔ ہوا کا ہلکا ہلکا ہونا۔
 نفاذ - (ن - ف) (ع - ۱) مذ - نفاذ۔ ہوا کا ہلکا ہلکا ہونا۔
 نفاس - (ن - ف) (ع - ۱) مذ - نفاس۔ ہوا کا ہلکا ہلکا ہونا۔
 نفاست - (ن - ف) (ع - ۱) مذ - نفاس۔ ہوا کا ہلکا ہلکا ہونا۔
 نفاق - (ن - ف) (ع - ۱) مذ - نفاق۔ ہوا کا ہلکا ہلکا ہونا۔

نفاق ڈالنا - (ن - ف) (ع - ۱) مذ - نفاق۔ ہوا کا ہلکا ہلکا ہونا۔
 نفاق رکھنا - (ن - ف) (ع - ۱) مذ - نفاق۔ ہوا کا ہلکا ہلکا ہونا۔
 نفیس - (ن - ف) (ع - ۱) مذ - نفیس۔ ہوا کا ہلکا ہلکا ہونا۔
 نفقت - (ن - ف) (ع - ۱) مذ - نفقت۔ ہوا کا ہلکا ہلکا ہونا۔
 نقتا - (ن - ف) (ع - ۱) مذ - نقتا۔ ہوا کا ہلکا ہلکا ہونا۔
 نفی - (ن - ف) (ع - ۱) مذ - نفی۔ ہوا کا ہلکا ہلکا ہونا۔

نفر - (ن - ف) (ع - ۱) مذ - نفر۔ ہوا کا ہلکا ہلکا ہونا۔
 نفرا - (ن - ف) (ع - ۱) مذ - نفرا۔ ہوا کا ہلکا ہلکا ہونا۔
 نفرانی - (ن - ف) (ع - ۱) مذ - نفرانی۔ ہوا کا ہلکا ہلکا ہونا۔
 نفرت - (ن - ف) (ع - ۱) مذ - نفرت۔ ہوا کا ہلکا ہلکا ہونا۔
 نفرت آنا - (ن - ف) (ع - ۱) مذ - نفرت آنا۔ ہوا کا ہلکا ہلکا ہونا۔
 نفرت انگیز - (ن - ف) (ع - ۱) مذ - نفرت انگیز۔ ہوا کا ہلکا ہلکا ہونا۔
 نفرت بڑھانا - (ن - ف) (ع - ۱) مذ - نفرت بڑھانا۔ ہوا کا ہلکا ہلکا ہونا۔
 نفرت رکھنا - (ن - ف) (ع - ۱) مذ - نفرت رکھنا۔ ہوا کا ہلکا ہلکا ہونا۔
 نفرت زدہ - (ن - ف) (ع - ۱) مذ - نفرت زدہ۔ ہوا کا ہلکا ہلکا ہونا۔
 نفرت کرنا - (ن - ف) (ع - ۱) مذ - نفرت کرنا۔ ہوا کا ہلکا ہلکا ہونا۔

نفرت کٹی - (ن - ف) (ع - ۱) مذ - نفرت کٹی۔ ہوا کا ہلکا ہلکا ہونا۔
 نفرت کھانا - (ن - ف) (ع - ۱) مذ - نفرت کھانا۔ ہوا کا ہلکا ہلکا ہونا۔
 نفرت ہونا - (ن - ف) (ع - ۱) مذ - نفرت ہونا۔ ہوا کا ہلکا ہلکا ہونا۔
 نفری - (ن - ف) (ع - ۱) مذ - نفری۔ ہوا کا ہلکا ہلکا ہونا۔
 نفی میں سخر کیا - (ن - ف) (ع - ۱) مذ - نفی میں سخر کیا۔ ہوا کا ہلکا ہلکا ہونا۔
 نفیمن - (ن - ف) (ع - ۱) مذ - نفیمن۔ ہوا کا ہلکا ہلکا ہونا۔
 نفیرن اٹھانا - (ن - ف) (ع - ۱) مذ - نفیرن اٹھانا۔ ہوا کا ہلکا ہلکا ہونا۔
 نفیرن کرنا - (ن - ف) (ع - ۱) مذ - نفیرن کرنا۔ ہوا کا ہلکا ہلکا ہونا۔
 نفیس - (ن - ف) (ع - ۱) مذ - نفیس۔ ہوا کا ہلکا ہلکا ہونا۔
 نفیس بازپس (واپس) - (ن - ف) (ع - ۱) مذ - نفیس بازپس (واپس)۔ ہوا کا ہلکا ہلکا ہونا۔
 نفیس رُو - (ن - ف) (ع - ۱) مذ - نفیس رُو۔ ہوا کا ہلکا ہلکا ہونا۔
 نفیس تنگ - (ن - ف) (ع - ۱) مذ - نفیس تنگ۔ ہوا کا ہلکا ہلکا ہونا۔

نفس سرور - (ع-ن-م-ن) نغصد ٹھنڈی آہ- آہ سرور۔
 نفس شماری - (ع-ن-ا-م-ث) نزع کا دقت - جب سانس گئے جائیں۔
 نفس گرم - (ع-ن-ا-م-ن) گرم آہ - بچے دل کی فریاد۔
 نفس - (ع-ن-ا-م-ن) جان، روح، ذات، وجود، مستی، حقیقت، اصلیت (م)، اصل شے - ہست (۵)، لب لباب (۶) حضرتناہل (۷)، خواہش نفسانی (جمع) نفوس۔
 نفس الامر - (ع-ن-ا-م-ن) حقیقت، حقیقت ماضیہ مدعا، واقعی بات۔
 نفس الامری - (ع-ن-ا-م-ث) نفس الامر سے منسوب، وہ حالات واقعی جنہیں دوست دشمن سب سے مانا ہے۔
 نفس آمارہ - (ع-ن-ا-م-ن) بہت حکم کرنے والا (۲) انسان کی خواہش جو برائی کی طرف مائل کرے۔
 نفس بیہمی - (ع-ن-ا-م-ن) جنسی خواہش - ہدی کی رغبت - گناہ کی طرف میلان۔
 نفس پرست - (ع-ن-م-ث) شہوت پرست، عیاشی۔
 نفس پرستی - (ع-ن-ا-م-ث) خواہشات کے بکنے پر چلنا - شہوت پرستی، عیاشی، خود غرضی۔
 نفس ربا - (ع-ن-م-ث) وہ کلام جس کا پڑھنا آسان ہو۔
 نفس کش - (ع-ن-م-ث) نفسانی خواہشات کو پکڑنے والا (۲) زیادہ پرہیزگار۔
 نفس کشی - (ع-ن-ا-م-ث) دنیاوی خواہشات کو پکڑنا - پارسائی - پاکدامنی۔
 نفس نو آمد - گناہ سرزد ہونے کے بعد اپنے آپ کو لعنت ملامت کرنے والا نفس۔
 نفس مارنا - (ع-ن-ا-م-ث) دنیاوی خواہشات کو پکڑنا، دل کو مارنا طبیعت پر قابو پانا، پاک دامن رہنا۔
 نفس مطلب (مضمون) - (ع-ن-ا-م-ن) منشأ - اصل مدعا، اصل مطلب - اصل مقصد، مدعا۔
 نفس مصلحت - (ع-ن-ا-م-ث) حکم الہی پر چلنے والا نفس جو بڑی باتوں سے پاک صاف رہے - نظریں ٹہنیے۔
 نفس نابالغہ - (ع-ن-ا-م-ن) انسانی روح (۲) وہ شخص جو کسی دوسرے کی ناک کا بال بنا ہو۔
 نفس نفیس - (ع-ن-ا-م-ن) خدا کی ذات پاک - ذات خاص - خود بد دولت - اپنے آپ۔
 نفسا نفسی - (ع-ن-ا-م-ث) نفس، سانس، نف، سی (۱)، اور (ع) خود غرضی، آبادھالی۔
 نفسانی - (ع-ن-ا-م-ث) نفس سے منسوب - نفس کا۔
 نفسانیت - (ع-ن-ا-م-ث) نفس، سانس، ذات، (ع-ن-ا-م-ث) خواہش، خواہش۔
 (۲) عذر - نخوت۔
 نفسی - (ع-ن-ا-م-ث) نفس سے منسوب - ذاتی۔
 نفسی - (ع-ن-ا-م-ث) اپنی ذات کی خود غرضی - آبادھالی۔

نفسی نفسی پڑنا - (ع-ن-ا-م-ث) اپنی اپنی فکر کرنا اور دوسرے کی پردا نہ ہونا۔
 نفسی نفسی کا دل - (ع-ن-ا-م-ن) روز قیامت ہر ایک کو اپنی اپنی ٹہنی ہوگی۔
 نفسیات - (ع-ن-ا-م-ث) علم النفس - انسان کے تحت الشعور اور لا شعور کی تحقیق کا علم (انگ) (Psychology)
 نفسیاتی - (ع-ن-ا-م-ث) نفس سے متعلق۔
 نفسیات سے منسوب۔
 نفسیاتی تجزیہ - (ع-ن-ا-م-ث) انسان کے ذہنی محرکات اور اعمال کی بجائے پڑنا۔
 نفسیاتی جنگ (Cold War) - (ع-ن-ا-م-ث) سرد جنگ - جھج جھج اور تھپ تھپ کی نفع - (ع-ن-ا-م-ن) نفع حاصل - نتیجہ - پھل - ثمرہ (۲) منافع - سود - بارود میں فک کی ذریعے بولا جاتا ہے۔
 نفع اٹھانا - (ع-ن-ا-م-ث) فائدہ حاصل کرنا۔
 نفع رسانی - (ع-ن-ا-م-ث) فائدہ پہنچانا۔
 نفع نقصان - (ع-ن-ا-م-ن) فائدہ اور ٹوٹا (۲) جڑائی - بھلائی بُرا - بھلا (۲) علم الحساب کا ایک قاعدہ جس سے تجارت میں نفع اور نقصان معلوم کیا جاتا ہے۔
 نفعہ - (ع-ن-ا-م-ث) نفع - فائدہ - کفالت - بیوی کے روٹی کپڑے کا خرچ جو شوہر کے ذمہ ہوتا ہے۔
 نفوذ - (ع-ن-ا-م-ث) نفوذ - وہ عبادت جو فرض نہ ہو - وہ نماز جو فرض واجب اور سنت کے علاوہ پڑھی جائے۔
 نفوذ - (ع-ن-ا-م-ث) نفوذ - وہ شکرانہ کے طور پر ادا کی جائے (۲) زائد عطیہ - مجمع - لفظ۔
 نفوذ - (ع-ن-ا-م-ث) نفوذ - کھانا پکانا، گڑنا، جاری ہونا۔
 نفوذ کرنا - (ع-ن-ا-م-ث) سرایت کرنا، جاری ہونا، اثر کرنا، اندر گھسنا۔
 نفوذ - (ع-ن-ا-م-ث) نفوذ - نفرت کرنے والا (۲) بغض اول، بھاننا، نفرت کرنا۔
 نفوس - (ع-ن-ا-م-ث) نفوس - جمع روحیں - ہستیاں۔
 نفوس قدسیہ - (ع-ن-ا-م-ث) پاک روحیں (۲) بزرگان دین - (۳) پیغمبر اور فرشتے۔
 نفی و اثبات - (ع-ن-ا-م-ث) نفی و اثبات کی ضد - کسی چیز کے وجود سے انکار۔
 نفی میں جواب دینا - (ع-ن-ا-م-ث) انکار کرنا، نامنظور کرنا، نہیں کرنا۔
 نفی و اثبات - (ع-ن-ا-م-ث) انکار و اقرار۔
 نفیر - (ع-ن-ا-م-ث) نفیر - نفرت کرنے والا - متفرق (۲) وہ لوگ جو کسی کام کے لیے آگے آگے جائیں۔
 آواز - (ع-ن-ا-م-ث) آواز

جو سونے کی حالت میں نکلتی ہے (۲۱) نفیری - شہنائی ترقی (۳۲) نالہ - فریاد پیچ پکار - واویلا -
 نفیری - (ان تیر چنی) (ن صفت) نفیری بجانے والا -
 نقیر عام - (ع - ۱) مذ عام لوگوں کا بغاوت یا چڑھائی کرنا (۲) امر کے نام حکم کردہ اپنے لشکر کے کمانڈروں -
 نفیری - (ان - لی - ری ۱ - ۱) مذ (شہنائی ترقی) بغورہ -
 نفیس - (ان - نفیس) (ع - صفت) (۱) عمدہ - (۲) اعلیٰ درجہ کی قیمتی - پیش بہا (۳) لطیف - پاکیزہ - پاک و صاف -

ن - ق

نقاب - (ع - ۱) مذ نقب لگانے والا - سوراخ کرنے والا - سُرنگ کھودنے والا -
 نقاب - (ن - نقاب) (ع - ۱) مذ (نقاب) گھونگٹ - برقع - چہرے پر ڈالنے کا پردہ -
 نقاب (انٹھانا) انٹھانا - (۱) محاورہ (گھونگٹ کھولنا - پردہ ہٹانا - نہ پر سے پردہ ہٹانا -
 نقاب پوش - (ع - ۱) مذ (نقاب) جس نے منہ پر نقاب ڈال رکھا ہو -
 نقاب چھوڑنا - (۱) محاورہ (منہ پر پردہ ڈال لینا چہرہ چھپا لینا -
 نقاب دار - (ع - ۱) مذ (نقاب) پہننے والا -
 نقاد - (نق - نقاد) (ع - ۱) مذ (۱) لکھنے والا - لکھنا لکھنا دیکھنے والا (۲) اچھائی برائی ظاہر کرنے والا (۳) تنقید اور تبصرہ کرنے والا -
 نقارچی - (نق - نقارچی) (ع - ۱) مذ (نقارہ بجانے والا) نوبت بجانے والا -
 نقار خانہ - (نق - نقار خانہ) (ع - ۱) مذ (نقارہ نوبت بجانے کی جگہ) نوبت خانہ -
 نقار خانے میں طوطی کی آواز - (۱) مثل (بہت شور و غل میں گزرد آواز کو کوئی نہیں سن سکتا) (۲) بڑے آدمیوں کی رائے کے مقابلے میں چھوٹوں کی آواز ان سنی ہو کر رہ جاتی ہے -
 نقارہ - (نق - نقارہ) (ع - ۱) مذ (نقارہ نوبت - طبل -
 نقارہ بجاتے پھرنا - (۱) محاورہ (مشہر کرنا - منادی کرنا -
 نقارہ بجا کے - (۱) نابع فعل (کلمہ گھلا - علانیہ -
 نقارے باج دہاے باج گئے - (۱) مثل (بڑی نمودار شہرت ہوئی) (۲) دھوم مچ گئی -
 نقارہ پر چوہ (چوٹ) پڑنا - (۱) محاورہ (نقارہ بجانا - طبل بجانا -
 نقارے کی چوٹ - (۱) مذ (نقارہ بجانے والا) (۲) علانیہ -
 نقاش - (نق - نقاش) (ع - ۱) مذ (نقش ڈنگار بنانے والا) مصور -
 نقاش اول - (ع - ۱) مذ (۱) کٹنا (۲) خدا -
 نقاشی - (نق - نقاشی) (ع - ۱) مذ (نقش ڈنگار بنانے کا پیشہ -

مصوری - لنگاری - منبت کاری -
 نقاط - (نق - نقاط) (ع - ۱) مذ (نقطہ کی جمع) نقطہ -
 نقال - (نق - نقال) (ع - ۱) مذ (نقل کرنے والا) بھانڈا - ہیرا پیرا - مسخرا -
 نقالی - (نق - نقالی) (ع - ۱) مذ (نقل کرنے کا پیشہ) بھانڈا -
 نقاہت - (نق - نقاہت) (ع - ۱) مذ (ضعف) کمزوری - نالافتی ناتوانی -
 نقائص - (نق - نقائص) (ع - ۱) مذ (نقص کی جمع) عیب کھوٹ - بڑیاں -
 نقب - (ع - ۱) مذ (سینہ - سرنگ - شنگاف - دیوار میں بڑا سوراخ -
 نقب زن - (ع - ۱) مذ (نقب لگانے والا) - سینہ لگانے والا -
 نقب زنی - (ع - ۱) مذ (سینہ لگانا - دیوار توڑنا - سرنگ کھودنا) چوری -
 نقب لگانا - (۱) محاورہ (دیوار یا نفیس میں سوراخ کرنا) سینہ لگانا دیوار شکن کرنا -
 نقد - (ع - ۱) مذ (۱) آمادہ کرنا (۲) سکا سکا کھڑا کھڑا پیر کھنا (۳) سونے یا چاندی کا سکہ (۴) رقم جو فوراً ادا کی جائے (۵) پونجی - سرمایہ -
 نقد جان - (نقد - نقد جان) (ع - ۱) مذ (جان اور دل جو سب سے بڑی دولت ہیں) -
 نقد دم - (ع - ۱) مذ (بھیلا - تہا - مجرؤ -
 نقد مال - (ع - ۱) مذ (نعمت - تر مال - عمدہ مال -
 نقد نامہ - (ع - ۱) مذ (نقد ادا لیک کا سرٹیفکیٹ -
 نقد و تبصرہ - (ع - ۱) مذ (کسی کتاب کی مبرائی مصلحتی کو پرکھنا اور اس کے متعلق رائے دینا -
 نقد و جنس - مال اسباب - روپیہ - پیشہ - مال و دولت -
 نقد وقت - (ع - ۱) مذ (بہر دست - آجی - اس وقت -
 نقد نقد - (۱) مذ (تابع فعل) یا ستموں ہاتھ - دست بدست (۲) ایک ہاتھ لینا دوسرے ہاتھ دینا - کسی وقت ادا کرنا - فوراً قیمت دینا - ادھار نہ کرنا - نقد و حرم (ع معقول) نقد لینے دینے میں بڑی عزت ہے -
 نقدی - (نق - نقدی) (ع - ۱) مذ (روپیہ - مال و زر - دولت - رقم -
 نقدی بنانا - (۱) محاورہ (نقد رقم حاصل کرنا - روپیہ پیدا کرنا -
 نقرس - (نق - نقرس) (ع - ۱) مذ (۱) ایک قسم کا گنٹھیا (۲) وہ درد جو پاؤں کے انگوٹھے میں ہوتا ہے - پاؤں کے انگوٹھے کا گنٹھیا -
 نقرہ - (نق - نقرہ) (ع - ۱) مذ (۱) چاندی (۲) ہر وہ چیز جو سفید ہو - (۳) سفید گھوڑا -
 نقرنی - (نق - نقرنی) (ع - ۱) مذ (صفت) نقرہ سے متعلق - چاندی کا چاندی کا بنا (۲) چاندی جیسا سفید -
 نقش - (ع - ۱) مذ (۱) نگار - صورت - شبیہ - صورت - مورتی - تصویر - (۲) پھول بوٹوں کا کام - منبت کاری - بیل بوٹے - کندہ کاری (۳) چھاپ - مہر - ٹھپا (۴) زندگی باری میں جیت کا داؤں - ایک قسم

نقش کا لجر ہو جانا - (ع - ۱ - مذ) پتھر کی کبیر - پتھر کے نشان کی مانند - نہ مٹنے والا -

نقش کرنا - ۱۷ - مص مرکب، چھاپنا - بیل بوٹے بنانا یا کھودنا -

نقش کندہ کرنا - ۱۷ - مص مرکب - نقش کھودنا -

نقش کی مجال - ۱۷ - امت، وہ ترتیب جس سے نقش یا تعویذ کے خانے پڑھتے ہیں -

نقش کھولنا - ۱۷ - محاورہ، تعویذ کو پانی یا کسی مشروب میں دھونا -

نقش لکھنا - ۱۷ - محاورہ، عامل کا تعویذ لکھنا -

نقش مٹانا - ۱۷ - محاورہ، کسی قسم کے نشانوں کو نواہ وہ تحریر سے متعلق ہوں یا تصویر سے دھو ڈالنا یا بگاڑ دینا -

نقش مٹا دینا - ۱۷ - مذ، مقصد - آرزو -

نقش و نگار - ۱۷ - مذ، بیل بوٹے - بھول تھی -

نقش رہو جانا، ہونا - (۱ - محاورہ) دل نشین ہو جانا (۲) کندہ ہونا - لکھا جانا -

نقشیں چھیننا - (نق) نشان چھیننا، (نق) مص، عیب گیری کرنا -

نقشہ - (نق) شہ، (ع - ۱ - مذ) تصویر، تشبیہ - خوب - صورت

نقشہ چہرہ - تجلیہ (۳) ساخت - بناوٹ - (۴) طرز - سنج

دھج - دمنج - قطع (۵) نمونہ - مثال - خاکہ - جربہ (۶) عمارت یا اور کسی چیز کی صورت جو بطور خاکہ تیار کی جائے (۷) سانچہ قالب - ڈھانچ (۸) حالت - کیفیت - عالم (۹) برا حال -

(۱۰) ہرست - فرد (۱۱) چالان - مال کی خانہ پر کسی (۱۲) شطرنج کی کھال - مجال - جمع - نقشہ جات -

نقشہ آنکھوں کے سامنے ہونا - (۱ - محاورہ) کسی چیز کی کیفیت عالم تصور میں پیش نظر ہونا -

نقشہ اتارنا - (۱ - محاورہ) تصویر کھینچنا - فوٹو لینا - خاکہ بنانا -

نقشہ اڑانا - (۱ - محاورہ) جربہ اتارنا - طرز کی نقل کرنا -

نقشہ بدل جانا - (۱ - محاورہ) حالت یا شکل کا متغیر ہو جانا -

نقشہ بگاڑنا - (۱ - محاورہ) صورت بگاڑنا - حال سے بے حال کر دینا -

نقشہ بگڑنا - (۱ - محاورہ) حال سے بے حال ہو جانا - صورت بگڑ جانا - بد نظمی اور بد انتظامی ہونا -

نقشہ بنانا - (۱ - محاورہ) تصویر بنانا - خاکہ اتارنا -

نقشہ بن کر بگڑ جانا - (۱ - محاورہ) حالت سنبھل کر خراب ہو جانا -

نقشہ پیدائش و اموات - (۱ - مذ) وہ رجسٹر جس میں کسی علاقے کی پیدائش و اموات درج کی جاتی ہیں -

نقشہ پیمانہ - (۱ - مذ) ہر نقشے کے نیچے ایک پیمانہ دے دیا جاتا ہے کہ ایک اینچ اتنے میلوں کے برابر ہے - اسے نقشہ پیمانہ یا چارٹومیٹر (Chartometer) کہتے ہیں -

نقشہ تیز ہونا - (۱ - محاورہ) اقبال یا در ہونا - دور دورہ ہونا -

نقشہ جمانا - (۱ - محاورہ) راہ و رسم پیدا کرنا - اعتبار جمانا - رسوخ نہ مٹنے والا -

کا بجا (۵) تعویذ (۶) نشان - کھوج - علامت (۷) خیال - تصور (۸) تاثیر - اثر (۹) جاؤ - ٹوٹا - منتشر - انہوں (۱۰) لکھا ہوا - منقوش - لکھا ہوا - جمع - نقوش -

نقش آب - (بر آب) - (ع - ۱ - مذ) فانی - جلد مٹ جانے والا - بے ثبات -

نقش ابھرنا - (۱ - محاورہ) نقش کا سطح سے اُٹنا، بوجھنا

نقش اٹھانا - (۱ - محاورہ) حرفت اس طرح مٹانا کہ دھتہ نہ پڑے

نقش اول - (ع - ۱ - مذ) پہلی تحریر - مسودہ -

نقش باطل - (ع - ۱ - مذ) نقش جو مٹا دینے کے قابل ہو - فانی - مٹ جانے والا - فنا ہونے والا -

نقش بٹھانا - (۱ - محاورہ) رعب جمانا - رسوخ پیدا کرنا -

نقش بند - (ع - ۱ - مذ) نقاش - مصور - گل کار -

نقش بندی - (ع - ۱ - مذ) نقاشی - مصوری (۲) حضرت خواجہ بہاؤ الدین کے مگرید -

نقشہ بندی - (ع - ۱ - مذ) صوفیہ کا ایک سلسلہ جو حضرت خواجہ بہاؤ الدین سے چلا ہے -

نقش بردیوار - نقش بردیوار - (ع - ۱ - مذ) حیران کشندہ ہر گنا بکا - بیخس و حرکت -

نقش بھرننا - (۱ - محاورہ) تعویذ کے خانوں کو پورا کرنا -

نقش بیٹھنا - (۱ - محاورہ) (۱) اثر ہو جانا - (۲) قائم ہو جانا (۳) کسی کے دل میں کسی کی جگہ ہو جانا (۴) نشان بن جانا -

نقش پاؤں کا نشان - (ع - ۱ - مذ) پاؤں کا نشان - سراخ - کھوج -

نقش پرداز - (ع - ۱ - مذ) مصور - نقاش -

نقش سخن - (ع - ۱ - مذ) محبوب کو قابو کرنے والا تعویذ -

نقش ثانی - (ع - ۱ - مذ) دوسرا نقش جو پہلے نقش یا تحریر سے بہتر ہوتا ہے -

نقش جمانا - (۱ - محاورہ) رعب بٹھانا - متاثر کرنا - رسوخ پیدا کرنا -

نقش چھینا - (۱ - محاورہ) اثر قائم ہونا - رعب بٹھانا -

نقش خوب - (ع - ۱ - مذ) محبت کا تعویذ -

نقش در بچم - (ع - ۱ - مذ) وہ نشان جو کسی پر ثبت ہوتے ہیں -

نقش دل کرنا - (۱ - محاورہ) دل پر کندہ کرنا - دل میں جمالینا - خوب یاد رکھنا -

نقش دل ہونا - (۱ - محاورہ) پختہ یقین ہونا - دل بردیوار بٹھانا

نقش دیوار ہو جانا - (۱ - محاورہ) کسی کے عالم میں رہ جانا - بیخس و حرکت ہو جانا -

نقش سویدنا - (ع - ۱ - مذ) وہ سیاہ داغ جو دل میں ہوتا ہے

نقش طراز (گر) - (ع - ۱ - مذ) نقاش - مصور -

نقش قدم پر چلنا - (۱ - محاورہ) کسی کی پوری پوری تقلید کرنا -

نقش کا لجر ہونا - (ع - ۱ - مذ) پتھر کی کبیر - پتھر کے نشان کی مانند نہ مٹنے والا -

حاصل کرنا۔ تصویر جمانا (۳)۔ تہہ بر کرنا۔ موقع نکانا۔
 نقشہ جمع کرنا (۱۱)۔ محاورہ (۱۱)۔ اشریہ یا ہر گھٹ جانا۔
 نقشہ جمانا (۱۱)۔ محاورہ (۱۱)۔ بات بنانا۔ رسائی ہونا۔ اعتبار ہونا۔ روشن
 ہونا۔ مطلب حاصل ہونا (۱۲)۔ تصویر قائم ہونا۔ خیال بندھنا۔
 نقشہ محدود و وسیعیت (۱۱)۔ مذ (۱)۔ وہ نقشہ جس میں کمیوں کی حد بندی
 کر دیجے ہو۔ پیمائش وسیع کی فہرست۔
 نقشہ پینچ جانا (۱۱)۔ محاورہ (۱)۔ تصویر سامنے آجانا۔ آنکھوں کے
 سامنے منظر بندھ جانا۔
 نقشہ نکالنا (۱۱)۔ محاورہ (۱)۔ الزام لگا کر بدنام کرنا۔
 نقشہ نکالنا (۱۱)۔ محاورہ (۱)۔ بدنامی ہونا۔ ڈسوائی ہونا۔
 نقشہ نویسی (۱۱)۔ ف (صفت) (۱)۔ نقشہ بنانے والا۔ مصور۔ نقاش
 (۱۲)۔ بعض عدالتوں میں ایک عہدے کا نام
 نقشی۔ نقاشیں۔ (نق)۔ (نق)۔ نقاشیں (۱)۔ صفت (منقش)
 جس پر نقش بنے ہوں۔
 نقض (۱۱)۔ مذ (۱)۔ کم کرنا۔ کمی ہونا (۲)۔ کمی۔ کوتاہی۔ کسر (۳)
 عیب۔ بُرائی۔ کھوٹ۔ بیچ۔ نقصان۔
 نقص نکالنا (۱۱)۔ محاورہ (۱)۔ عیب نکالنا۔ اعتراض کرنا۔
 نقصان (نق)۔ صان (۱)۔ مذ (۱)۔ کمی۔ کوتاہی۔ قباحت۔ ہرج۔ بھڑبھڑا
 گانا۔ بیچ۔ نقصانات۔
 نقصان اٹھانا (۱۱)۔ محاورہ (۱)۔ سہارہ برداشت کرنا
 نقصان بھرنانا (۱۱)۔ محاورہ (۱)۔ ٹوٹا بھرنانا۔ خسار اچرا کرنا۔ گھمانا۔
 نقصان پہنچانا (۱۱)۔ محاورہ (۱)۔ ضرر پہنچانا۔ ایذا دینا۔
 نقصان رسائی (۱۱)۔ ف (صفت) (۱)۔ نقصان پہنچانے والا۔
 نقصان رسائی (۱۱)۔ ف (صفت) (۱)۔ تکلیف دہی۔ ایذا پہنچانا۔
 نقصان کرنا (۱۱)۔ مص مرکب (۱)۔ کام لگانا۔ حرج کرنا۔ فائدے سے باز کرنا
 (۲)۔ تکلیف دینا۔ ضرر پہنچانا (۳)۔ ضائع کرنا۔ کھونا۔ خراب کرنا۔
 نقض (۱۱)۔ مذ (۱)۔ ٹوٹ پھوٹ۔ توڑنا۔ چھوڑنا۔ بگاڑنا۔
 نقض امن (۱۱)۔ مذ (۱)۔ امن شکنی۔ فساد۔ جھگڑا۔
 نقض عہد (۱۱)۔ مذ (۱)۔ وعدہ خلافی۔
 نقطہ (نق)۔ نقطہ (۱)۔ مذ (۱)۔ پندی۔ صفر (۲)۔ مرکز۔ جہہ۔ نقاط۔
 نقطہ اشتعال (۱۱)۔ مذ (۱)۔ گرمی اور کھولاؤ کا وہ درجہ جس
 پر آگ بھڑک اٹھے۔
 نقطہ انتخاب (۱۱)۔ مذ (۱)۔ وہ نقطہ جو کسی کتاب کے حاشیہ پر یا کسی عبارت
 یا شعر پر یا اخبار پسندیدگی کے طور پر لکھا جائے۔
 نقطہ اور شوشے کا فرق (۱۱)۔ صفت (۱)۔ خفیت سافرق۔
 نقطہ معروج (۱۱)۔ مذ (۱)۔ کمال۔ انتہا۔ انتہائی بلندی۔
 نقطہ کا فرق نہ ہونا (۱۱)۔ محاورہ (۱)۔ ذرا بھی فرق نہ ہونا۔
 نقطہ گاہ (۱۱)۔ مذ (۱)۔ دائرہ کار مرکز (۲)۔ مکہ مکرمہ۔ جسے مرکز زمینی
 کہا جاتا ہے۔
 نقطہ لگانا (۱۱)۔ محاورہ (۱)۔ عیب لگانا۔ دھبہ لگانا۔

نقطہ مقابل (۱۱)۔ مذ (۱)۔ ہمسرہ۔ حریت۔
 نقطہ مہو بوم (۱۱)۔ مذ (۱)۔ فرضی نقطہ (۲)۔ مجازاً (۱)۔ دہی محبوب۔
 نقطہ نظر (۱۱)۔ مذ (۱)۔ مرکز نگاہ۔ انداز نظر۔ دیکھنے یا سوچنے
 کا انداز یا ڈھنگ۔
 نقطہ لوگریز (۱۱)۔ ف (صفت) (۱)۔ مذ (۱)۔ روشنائی (۲)۔ سیاہی، کمی وہ لہند جو قلم کی
 نوک سے کاغذ پر ٹپک چڑھے۔
 نقطہ دائرہ (۱۱)۔ ف (صفت) (۱)۔ مذ (۱)۔ مرکز زمین (۲)۔ گناہت حضرت محمد رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
 نقل (۱۱)۔ مذ (۱)۔ تبدیلی۔ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا۔ (۲)
 جریرہ۔ منتی (۳)۔ نمونہ۔ نظیر (۴)۔ لطیف۔ چٹکلا (۵)۔ روایت۔
 کہانی (۶)۔ روپ۔ سوانگ (۷)۔ ایک طرف کی حرکت دوسرے
 طرف کو دینا۔
 نقل آٹا کرنا، اڑانا (۱۱)۔ محاورہ (۱)۔ کسی تحریر کا نقل کرنا (۲)۔ کسی کی
 صورت سے اپنی صورت مشابہ کرنے کی کوشش کرنا۔ طرز آڈانا۔
 سوانگ بھرنانا۔
 نقل انقل (نقل و نقل) (۱۱)۔ مذ (۱)۔ نقل کی نقل۔
 نقل راجہ عقل (۱۱)۔ ف (صفت) (۱)۔ نقل کرنے کے واسطے زیادہ عقل کی ضرورت
 نہیں ہوتی۔
 نقل کرنا (۱۱)۔ محاورہ (۱)۔ کسی کھلی ہوئی چیز کو بجنسہ دوسری چیز پر آٹانا
 (۲)۔ سوانگ کرنا۔ روپ بھرنانا (۳)۔ بیان کرنا۔ حکایت کرنا (۴)۔
 ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا (۵)۔ دوسروں کی صورت اور انداز
 کی شکل بنانا۔ اور تسو کرنا۔
 نقل کفر، کفر نشا شد (۱۱)۔ ف (صفت) (۱)۔ کفر کی نقل کرنے سے ناقبل کافر
 نہیں ہو جاتا۔
 نقل لینا (۱۱)۔ محاورہ (۱)۔ نقل حاصل کرنا۔ منٹے لینا۔
 نقل مکان (۱۱)۔ مذ (۱)۔ ایک مقام سے دوسری جگہ جانا۔ مکان
 تبدیل کرنا۔
 نقل نویسی (۱۱)۔ ف (صفت) (۱)۔ نقل کرنے والے کا۔
 نقل نویسی (۱۱)۔ ف (صفت) (۱)۔ نقل کرنے والے کا۔
 نقل و حمل (۱۱)۔ مذ (۱)۔ اٹھانا اور لیجانا (۲)۔ ایسا وسیلہ جس سے اٹھانے
 اور لیجانے کا کام لیا جائے۔ ٹرانسپورٹ۔
 نقل ہے (۱۱)۔ مذ (۱)۔ روزمرہ کہتے ہیں۔ منقول ہے۔ روایت ہے (۲)۔ روایتی
 سماجی۔ روایتی۔ زمانہ۔
 نقل (۱۱)۔ مذ (۱)۔ وہ چیز جو کسی نشا اور چیز کے بعد تبدیل ذائقہ کے لیے
 کھائیں (۲)۔ ایک قسم کی مٹھائی۔
 نقل فروش (۱۱)۔ ف (صفت) (۱)۔ نقل بیچنے والا۔
 نقل کرنا (۱۱)۔ محاورہ (۱)۔ ناشہ کرنا۔ نقل کی طرح کھانا۔ ٹوٹنا۔
 نقل نام (۱۱)۔ ف (صفت) (۱)۔ وہ نقل جو مجلس یا موت میں تقسیم کیے جاتے ہیں۔

نقل (مجلس، محفل) - (۱-۷) منہ) مسخرہ جس کی ذات سے محفل کی تفریح ہو۔

نقلی - (۱-۷) منہ) صفت) جھوٹا - مصنوعی - جعلی - کھوٹا - ظریف (۲) وہ چیز جو ہم صحبت لوگ کھائیں۔

نقلیا - (۱-۷) صفت) تعال - بھانڈ - نقلین کرنا - (۱۷-۱۶) محاورہ) کسی کے افعال و حرکات کی نقل کرنا۔
نقود - (۱-۷) منہ) نقد کی جمع - درمیں۔
نقوش - (۱-۷) منہ) نقوش کی جمع - تصویریں - گل - لمبے - کندہ کی ہوئی چیزیں۔

نقوع - (۱-۷) منہ) بھیگی ہوئی دوا یا میوہ (۲) بھیگی ہوئی دوا کا پانی۔
نقی - (۱-۷) منہ) صفت) پاک - صاف - خالص (۲) دکوین امام حضرت علی بن محمد کا لقب۔

نقیب - (۱-۷) منہ) لوگوں کے خاندان اور ذاتی حالات سے واقفیت رکھنے والا۔ (۲) تشریح کرنے والا - خبر دینے والا۔ (۳) مدح خواں (۴) بادشاہوں کی سواری کے آگے آگے آواز لگانے والا۔ (۵) بار یا فیہانت میں آنے والوں کی تبرین پیمانے والا۔ ہر کارہ - بچہ دار۔

نقیض - (۱-۷) منہ) نقیض (۱) مخالفت - اٹل - برعکس - ضد - (۲) عداوت۔

نقیہ - (۱-۷) منہ) ناقول - کمزور - ضعیف - ناقامت۔

ن - ک

نکت - (۱-۷) منہ) ناک کا مخفف۔

نکت بابل - (۱-۷) منہ) ناک کا بابل۔

نکت بہتہ - (۱-۷) صفت) جس کی ناک بہتی ہے۔

نکت ٹوڑا - (۱-۷) منہ) ناز - نخڑہ (۲) غرور - نخوت (۳) طنز و آمیز بات جو ناک پر چڑھا کر کہی جائے۔

نکت توڑے اٹھانا - (۱-۷) محاورہ) خیز برداشت کرنا - ناز اٹھانا۔

نکت چڑھا - (۱-۷) صفت) بد مزاج - مزاج دار - مغرور۔

نکت چھکتی - (۱-۷) منہ) ایک گونجی جیسے سونکنے سے چھینکیں آتی ہیں۔

نکت دم - (۱-۷) منہ) ناک میں دم - حیران - پریشان۔

نکت سب سے درست - (۱-۷) صفت) ہر طرح بے عیب اور بے نقص خوبصورت اور موزوں ناک نقشہ۔

نکت گٹا - (۱-۷) منہ) گٹلی ہوئی ناک والا - بے غیرت۔

نکت کٹی - (۱-۷) منہ) کٹی ہوئی ناک والی عورت (۲) بے غیرت اور بے غیرت عورت۔

نکت کٹی ہونا - (۱-۷) محاورہ) بے عزتی ہونا - تحقیر ہونا - بدنامی ہونا۔

نکت کھستی - (۱-۷) منہ) ناک رگڑنا - منت سماجت - عاجزی۔
نکت کھستی کرنا - (۱-۷) محاورہ) ناک رگڑنا - منت سماجت کرنا۔
عاجزی کرنا۔

نکت - (۱-۷) منہ) ناخن (۲) وضع قطع۔

نکتا - (۱-۷) منہ) کڑی - چھوٹا - سٹکھ - خرچہ - (۲) واژ - پانسہ۔

نکتا - (۱-۷) منہ) چھوٹا - خرد - ننھا - (۲) مختصر - کم - (۳) ناقص - (۴) نازک - (۵) باریک - (۶) ناتمام - (۷) ادھورا - (۸) ٹھنکا۔

نکتا - (۱-۷) منہ) ناک والی چیز کی ٹوک رہا - ٹیکھا - ایک قسم کا گھڑی کا کھیل۔

نکتا ٹوٹی - (۱-۷) منہ) آدھی ٹوٹی - وہ ٹوٹی جس کو آدھیا کہتے ہیں۔

نکتا لگانا - (۱-۷) محاورہ) لکڑی مارنا - (۲) ناک پہنچانا - (۳) ضرب لگانا - (۴) صدمہ پہنچانا۔

نکات - (۱-۷) منہ) خراب - بیکار - بگڑا۔

نکات - (۱-۷) منہ) نکات کی جمع - باریکیاں (۳) وہ بلیغ کلام جو ہر ایک کی سمجھ میں نہ آسکے۔

نکاح - (۱-۷) منہ) معاہدہ - معاشرت - عقدہ - بیاہ - شادی۔

نکاح باندھنا - (۱-۷) محاورہ) نکاح پڑھنا - بیاہ کرنا۔

نکاح پڑھانا (کرنا) - (۱-۷) محاورہ) عقدہ کرنا - شادی کرنا - قاضی کا عورت اور مرد کو رشتہ ازدواج میں منسلک کرنا۔

نکاح پڑھانی - (۱-۷) منہ) نکاح پڑھانے کی اجرت۔

نکاح ثانی - (۱-۷) منہ) دوسرا نکاح۔

نکاح کرنا - (۱-۷) منہ) شادی کرنا۔

نکاح کی سی شرطیں کرنا - (۱-۷) محاورہ) کٹ چٹی کرنا۔

نکاح متعجب - (۱-۷) منہ) عارضی نکاح۔

نکاح موقت - (۱-۷) منہ) متعجبہ جو صرف کسی خاص مدت کے لیے ہو۔

نکاح نامہ - (۱-۷) منہ) کاغذ جس پر شادی کی تفصیلات درج ہوں۔

نکاح ہونا - (۱-۷) منہ) مصرتب عقدہ ہونا - شادی - بیاہ ہونا۔

نکاحی - (۱-۷) منہ) نکاح کے لاتی ہوئی - بیاہی عورت - عورت جس کا نکاح ہو چکا ہو - منکوحہ۔

نکاحی بیاہی - (۱-۷) منہ) وہ عورت جسے رسم نکاح ادا کر کے برات کے ساتھ لایا جائے - عزت و آبرو سے بیاہ کر لائی ہوئی عورت (۲) شادی شدہ عورت۔

نکاحی نہ بیاہی - (۱-۷) منہ) نہ بیاہی نہ ہونے پر کہاں سے آئی - (۲) مثل) اُس شخص کی نسبت کہتے ہیں جو خواہ خواہ رشتہ دار بن بیٹھے۔

نکار - (۱-۷) منہ) کٹا - (۲) چھٹکارا۔

نکارا - (۱-۷) منہ) کٹا - (۲) صفت) ناکارہ۔

نکارنا - (۱-۷) منہ) کٹنا - (۲) صفت) نکان۔

نکاس - (۱-۷) منہ) اصل - بنا - (۲) آغاز - شروع۔

(۳) میح - سوت - مباد (۴) نسل - خاندان (۵) صدور طہود
(۶) اخراج - برآمد -
نکاسی - رن - کاسی (۷) -۱۰- مٹھ، محاصل - پیداوار (۲) فائدہ - منافع
(۳) پکری - مال کی فروخت (۴) روائی - برآمد (۵) چنگی -
محصول - راہداری (۶) سرحد -
نکال - دن کال (۷) -۱- اند، خراب - بڑا - رنج - دکھ - عقوبت -
نکال بیٹھنا (۱۷) - محاورہ ہے خیالی میں کوئی بات کہہ دینا -
نکال پیٹھال کے دن (۱۶) -۱۷- اند، فصل کی جمعگی کے دن -
نکال دینا - (۱۸) - محاورہ موقوف کر دینا - ماہر کر دینا - چالباز کر دینا -
دور کر دینا -
نکال لانا (۱۷) - محاورہ انکار کے لہجہ - بھگالے ہانا - چڑا لانا -
نکال لینا (۱۶) - محاورہ سوال حل کر لینا (۲) چڑ لینا (۳) کسی جگہ سے کوئی چیز
برآمد کر لینا (۴) پہلی نکالنا -
نکالا - رن - کار لا (۱۰) -۱- مٹھ، چبک -
نکالا - رن - کار لا (۱۰) -۱- اند، (۱) شہر بدر لانا اخراج -
نکالا ملنا - (۱۶) - محاورہ شہر بدر کیا جانا - نکالا ملنا جلا وطن کیا جانا -
نکالنا - رن - کال، بنا، (۱۰) -۱- مٹھ، (۱) باہر کرنا خارج کرنا (۲) علیحدہ کرنا
جدا کرنا - چھٹنا - منتحب کرنا (۳) وضع کرنا - تفریق کرنا -
(۴) ایجاد کرنا - دل سے کوئی بات پیدا کرنا - کسی چیز کو رواج دینا
(۵) حل کرنا - سلجھانا (۶) کاڑھنا - تیل بوٹے نکالنا - (۸)
سدھانا - گھوڑے کی سواری یا دوڑ کے قابل بنانا (۹) موقوف
کرنا - جراب دے دینا - برطرف کرنا (۱۲) شروع کرنا (۱۳)
بدل لینا (۱۴) درخت اکھاڑنا -
نکالنا - رن - کار لا، (۱۰) -۱- مٹھ، (۱) ٹھانا نکالنا کرنا - کھیتوں اور کھیلوں سے
خود روگھاس پھونس اکھیر دینا -
نکائی - رن - کاسی (۱۰) -۱- مٹھ، نکائی -
نکبت - رنگ - بہت (۷) -۱- مٹھ، افلاس - بد حالی -
ننگ پڑی - رنگ - پ - لڑی (۱۰) -۱- مٹھ، نتھنا -
نکت - رن - کت (۱۰) -۱- اند، نکتہ -
نکتہ - رنگ - شہ (۶) -۱- اند، (۱) باریکی - تہ کی بات - باریکی بات (۲)
لطیفہ - چٹکل (۳) رشتہ - عیب (۴) وہ چڑا جو گھوڑے کے
منہ پر رہتا ہے شیعہ - نکات -
نکتہ باقی نہ چھوڑنا (۱۶) - محاورہ کوئی دقیقہ فرد گذاشت نہ کرنا -
نکتہ ہیں (۷) -۱- مٹھ، نازک خیال -
نکتہ بینی (۷) -۱- مٹھ، نازک خیالی - باریکی بینی -
نکتہ (بروز) پرورد - نکتہ سنج (۷) -۱- مٹھ، خوش گفتاری سخی
شناس - عقل مند - ہوشیار -
نکتہ ہیں (۷) -۱- مٹھ، عیب ڈھونڈنے والا -
نکتہ چینی (۷) -۱- مٹھ، عیب گیری - مین میح نکالنا -
برائی نکالنا -

نکتہ (نفسی) - (۷) -۱- اند، چھبھا ہوا بھید -
نکتہ داں (۷) -۱- مٹھ، باریکی بات جاننے والا - دقیقہ رس -
نکتہ رس (۶) -۱- مٹھ، تیز نغم - زبرک - ذکی -
نکتہ رنج (۷) -۱- مٹھ، خوش گفتاری سخی کی بات کہنے والا -
عقل مند - ہوشیار - خوش بیان -
نکتہ (سخی) وری (۷) -۱- مٹھ، خوش گفتاری - فصاحت -
خوش بیانی -
نکتہ (شناس) داں (۷) -۱- مٹھ، تیز نغم - ذہین - زبرک - دانہ -
نکتہ کی بات (۱۶) -۱- مٹھ، باریکی اور مدنی خیز بات - تہ کی بات -
نکتہ گیر - (۷) -۱- مٹھ، عیب جو نکتہ ہیں -
نکتہ نواز (۷) -۱- مٹھ، لطیف بات کی قدر کرنے والا -
نکتہ (تہ) - (۱۰) -۱- مٹھ، (۱) ایک قسم کی مکھائی جو بیستہ سے مویوں کے
بلو بر بنائی جاتی ہے (۲) نگہی،
نکتہ سی بلاؤ (۱۷) -۱- اند، وہ بلاؤ جس میں پتے کی کیتیاں پڑی ہوئی ہوں -
نکتہ نکالنا - (۱۰) -۱- مٹھ، عیب نکالنا - نئی بات نکالنا -
نکتہ - رنگ - (۱۰) -۱- مٹھ، (۱) ناگ کلا ہوا (۲) بے جیا - بے غیرت - بدنام
(۳) سیاہ رنگ کی مرغابی (۴) کوڑی جس سے جوا کھیتے ہیں -
(۵) ایک قسم کا گانا -
نکھنا پوجا سب سے اونچا (۱۷) -۱- مٹھ، مفلس گر شہتی خور -
نکھنہ بڑے احوال - (۱۰) -۱- مٹھ، بدنام اور رسوا آدمی کی زندگی
تخی سے بسر ہوتی ہے -
نکھنہ کا کھائے اوجھے کا نہ کھائے (۱۰) -۱- مٹھ، بے جیا کا احسان اٹھانا -
انتا بڑا نہیں چٹنا کر کھنڈن کا احسان اٹھانا -
نکھنہ کی ناک کھنی سوراخ اور بڑھی (۱۰) -۱- مٹھ، بے عزت آدمی ذلت کو
بھی خسر سمجھتا ہے -
نکھنہ (Necktie) (رنگ - پانی،) (۱) -۱- مٹھ، مغربی وضع کی
پٹی جو قمیض کے کار میں لگائی جاتی ہے -
نکھنہ ٹورا - رنگ - ٹورا (۱۰) -۱- اند، عمدہ - سخرہ -
نکھنہ (۱۰) -۱- مٹھ، (۱) وہ عورت جس کی ناک کٹی ہوئی ہو (۲) بے جیا
اور بے غیرت عورت (۳) -۱- مٹھ -
نکھنہ کا چٹنا (۱۰) -۱- اند، کمینہ - بداصل - ذلیل - روزیل -
نکھنہ (۱۰) -۱- مٹھ، (۱) ناشناسی (۲) وہ اسم جو غیر معنی چیز
دور کے لیے آئے -
نکھنہ (۱۰) -۱- مٹھ، (۱) لوک کی تصغیر - سرا - نوک - اخیر - انتہا -
(۲) کوڑ - گوشہ -
نکھنہ (۱۰) -۱- مٹھ، مرض کا عود کرنا - پھر بھار ہونا -
نکھنہ (۱۰) -۱- مٹھ، (۱) مٹھ، نکھنا -
نکھنہ (۱۰) -۱- مٹھ، (۱) مٹھ، ناک سے خون گرنا -
نکھنہ بھی نہ چھوٹی (۱۰) -۱- مٹھ، (۱) آسا صدہ نہیں پہنچا ذرا سی ہی تکلیف
ہیں ہوتی -

نیکسیر چھوڑنا۔ (۱۰۔ محاورہ) ناک سے خون بہنا۔
 نیکل۔ (Nickel) (رن۔ کلن) (انگ۔ ۱۰۔ انڈ) ایک قسم کی سفید دھات جس کی جلاد دوسری دھاتوں کے سامان برقی جاتی ہے۔
 نیکل آنا۔ (۱۰۔ مص) باہر آنا۔ ظاہر ہونا (۲، پیدا ہونا (۳، زمین سے باہر آنا۔ چھوڑنا۔
 نیکل بھگانا۔ (۱۰۔ مص) چل دینا۔ فرار ہو جانا (۲، قابو سے چلا جانا (۳، بیخ کر چلا جانا۔
 نیکل پڑنا۔ (۱۰۔ مص) ظاہر ہو جانا۔ سامنے آ جانا (۲، باہر آ جانا (۳، گر جانا۔
 نیکل پڑنا (م) ٹپک جانا (۵، اگل دینا۔
 نیکلتے بیٹھے دن۔ (۱۰۔ مذ) موسم کے تبدیل ہونے کا زمانہ۔
 نیکل جانا۔ (۱۰۔ محاورہ) چلا جانا۔ بھاگ جانا (۲، دور ہو جانا (۳، جانا رہنا۔
 زائل ہو جانا دم سہقت لے جانا۔ کنگے بڑھ جانا (۵، کپڑے کا پھٹ جانا۔ رفاقت ترک کر دینا۔
 نیکل چلنا۔ (۱۰۔ محاورہ) (۱۰، اپنی قیمت اور بساط سے بڑھ جانا (۲، اترنا۔
 مفرد ہو جانا۔ گستاخ ہو جانا۔ بیباک ہو جانا۔
 نیکل کھڑا ہونا۔ (۱۰۔ محاورہ) چل دینا۔ رخصت ہونا۔ باہر جانا۔ سفر پر روانہ ہونا۔
 نیکلانا۔ (رن۔ کلن) (نا، (۱۔ مص) (انگ۔ پھوڑنا۔ اُور آنا (۲، بہنا۔ جاری ہونا (۳، پیدا ہونا (م) ظاہر ہونا۔ سامنے آنا۔ باہر چلا جانا۔ برآمد ہونا۔ طلوع ہونا (دھ، بلند ہونا۔ اٹھنا (۶، ثابت ہونا (د، زائد ہونا (۸، چلا جانا۔ بھاگنا (۹، خانہ ہونا (۱۰، سہقت لے جانا (۱۱، پھٹ جانا (۱۲، حاصل ہونا۔
 نیکلانا بیٹھنا۔ (۱۰۔ محاورہ) اُردو رفت رکھنا۔
 نیکلی، خوشوں چڑھی کو نیکلی۔ (۱۰۔ شل) بات منہ سے نکلے تو مشہور ہو جاتی ہے۔
 نیکلیس۔ (Necklace) (نیک۔ نیس) (انگ۔ سا۔ مذ) گوبند۔
 بچھا لگی رکھنا۔ مالا۔
 نکما۔ (رن۔ کم) (ما، (۵۔ صفت) بے کار۔ ناکارہ۔ بے مصرف (۲، خالی مقلد (۳، بڑا خراب (م) ناچیز۔ حقیر۔
 نکما کر دینا۔ (۱۰۔ محاورہ) خراب کر دینا۔ بیکار کر دینا۔
 نکما ہو جانا۔ (۱۰۔ محاورہ) (۱، بے کار ہو جانا (۲، کام کے قابل نہ رہنا۔
 نکو۔ (رن۔ کو) (رق، نہیں)۔
 نکو۔ (نیک۔ کو) (۵۔ صفت) (۱۱، بدنام۔ مسما (۲، مطعون (۳، بڑی ناک والا۔ لمبی ناک والا۔
 نکو بنانا۔ (۱۰۔ محاورہ) بدنام کرنا۔ مسما کرنا۔
 نکو بننا۔ (۱۰۔ محاورہ) بدنام اور مسما ہونا۔ انگشت نما ہونا۔
 نکو۔ (رن۔ کو) (ن صفت) نیکو کا خفت۔ خوب اچھا۔
 نکو کار۔ (ن۔ مذ) نیک۔ ایسے افعال کا مالک۔
 نکو تام۔ (ن۔ صفت) اچھی شہرت والا۔ نیک نام۔

نیک فا۔ (نیک۔ فا) (۵۔ ارشد) (۱۱، سوئی کاناکا (۲، ترازو کی ڈنڈی کا سُورخ۔
 نیکوٹین۔ (Nicotine) (رن۔ کو۔ ٹین) (انگ۔ ادمت) تمباکو کا زہر۔
 نیکو سننا۔ (۵۔ مص) دانت نکالنا۔ جالادوں کی طرح دانت نکالنا۔
 نیکو ہش۔ (رن۔ کو۔ ہش) (ن۔ ادمت) (۱۱، علامت۔ سرزنش (۲، دھمکی۔ پھینکار۔
 نیکو سیدہ۔ (ن۔ صفت) خراب، بُرا۔ مذموم۔ علامت کیا گیا۔
 نیکوئی۔ (رن۔ کو۔ سی) (ن۔ ادمت) نیک سادستی۔
 نکوئی بادل بدل کر دن چنناں است کہ بد کردن بجائے نیک مردوں۔ (ن۔ شل) بد کے ساتھ نیک کرنا ایسا ہی ہے۔
 جیسے نیکوں کے ساتھ بُرائی کرنا۔
 نکھ۔ (۵۔ ۱۔ مذ) (۱۱، ناش۔ (۲، ایک خوشبو دار جڑ۔ (۳، کچا۔ بریشم۔
 نکھ سکھ سے درست۔ (۱۰۔ صفت) سر سے پاؤں تک خوبصورت بے عیب۔
 نکھ سے سکھ تک۔ (۱۰۔ تابع فعل) اڑی سے چوٹی تک۔ اول سے آخر تک۔ تمام دکال۔ (ازسرتا۔
 نکھاد۔ (رن۔ کھاد) (۵۔ ارشد) ایک بلند اور اُدنچا سُور۔ ہندی موسیقی کا ساتواں سُور۔ جس کا اختصار (رن) ہے۔
 نکھار۔ (رن۔ کھار) (۱۔ مذ) (۱۱، صفائی۔ اُجلا پن۔ زیب و زینت۔ آرائش خوبصورتی۔
 نکھارنا۔ (رن۔ کھارنا) (۱۰۔ مص) میل صاف کرنا۔ میل کاٹنا۔ اُجلا کرنا۔
 نکھبت۔ (نیک۔ بت) (ن۔ ادمت) (۱۱، بھول کی بُ۔ خوشبو۔ بھک۔ نکھت۔ (رن۔ کھت) (۵۔ ۱۔ مذ) ہر سینے کے پندرہ روز جن کے ذریعے بارش کا حساب کرتے ہیں۔
 نکھتر۔ (رن۔ کھت)۔ (۵۔ صفت) ناچیز (۲، بد مزہ۔ ناقص۔
 نکھتور۔ (رن۔ کھت)۔ (ن) (۱۰، صفت) ناکارہ۔ نکما (۲، وہ شخص جو کچھ نہ کہائے (۳، سُست۔ احمدی (م) احمق۔ یوقوف (۵، مفلس۔ تنگ دست۔
 نکھٹو آئے لڑنا۔ کھاؤ آئے ڈرنا۔ (۱۰۔ شل) ناکارہ آدمی ہر وقت بوی سے لڑتا رہتا ہے اور کانے والا بوی سے ڈرتا ہے۔
 نکھٹو کی جو رو سدا نکھی۔ (۱۰۔ شل) کابل اور بے کار کے گھر ہمیشہ مفلس رہتی ہے۔
 نکھد۔ (رن۔ کھد) (۵۔ صفت) بہت ہی بُرا۔ نکما۔
 نکھرا۔ (نیکھ۔ را) (۱۰، صفت) خوبصورت صاف۔
 نکھرا ہوا۔ (۱۰۔ صفت) (۱۱، صاف ستھرا۔ پاکیزہ (۲، جو بن پر آیا ہوا۔ آراستہ۔
 نکھرنا۔ (رن۔ کھرنا) (۱۰۔ مص) (۱۱، صاف ہونا۔ اُجلا ہونا۔ میل کاٹنا۔ چلنا۔

(۳) رونق آنا (۴) بننا - سنورنا - سنگھار کرنا۔
 نکھی - (۵) نکھ - ری، (۶) صفت، تروتازہ - صاف، نکھر کی تائیت۔
 نکھنڈ - (۷) نکھنڈ (۸) صفت، آدھا (۹) ٹھیک - عین۔
 نکھور - (۱۰) نکھور (۱۱) (۱۲) صفت، تلخی۔
 نکھوڑا - (۱۳) نکھوڑا (۱۴) صفت، بے مروت۔
 نک - (۱۵) نک، (۱۶) (۱۷) صفت، ناگ میں لہنے والا (۱۸) جوئے کی کوڑی بجے کا ایک داؤ، ایک قسم کا جوڑا۔
 نکمیر - (۱۹) نکمیر (۲۰) (۲۱) صفت، اوند کی جہاز، اوند کے ناگ کی رسی۔
 نکمیرین - (۲۲) نکمیرین (۲۳) صفت، اوند کے سوال و جواب کرنے والے دو فرشتے - منکر نکمیر۔
 نکیل - (۲۴) نکیل، (۲۵) صفت، اوند کی جہاز، اوند کے ناگ کی رسی۔
 نکیل ہاتھ میں ہونا - (۲۶) محاورہ، (۲۷) قابو میں ہونا، قبضہ میں ہونا، (۲۸) کام ہاتھ میں ہونا۔
 نکیلنا - (۲۹) نک، (۳۰) صفت، (۳۱) لوگدار - گاؤں - مخروٹی (۳۲) بانکا - طرح دار۔
 نکیلنا - (۳۳) صفت، خوش دمی - بانکین (۳۴) لوگ کی تیزی۔
 نکیلی - (۳۵) نک، (۳۶) صفت، (۳۷) لوگدار - مخروٹی (۳۸) وضع دار - طرح دار خوش وضع - (نکیلا کی تائیت)۔

نگ - (۱) (۲) نکینڈ - قیمتی پتھر یا شیشہ جو زوڑوں میں جڑا جائے۔
نگ جڑنا - (۳) محاورہ، نکینڈ چسپاں کرنا - نکلیں بچھانا۔
نگ کی جوڑیاں - (۴) صفت، ایک قسم کی جوڑیاں جن میں چھوٹے نگ جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔
نگار - (۵) نگار، (۶) صفت، (۷) تصویر (۸) عورت - مورقی (۹) خوبصورت مشوق - محبوب (۱۰) وہ شکل جو عورتوں میں اپنے ہاتھ پر ہندی سے بناتی ہیں (۱۱) زیبائش، آرائش، زینت - نگارنگ (۱۲) نگاریدن، کا صینہ امر جو کسی اسم کے بعد لگنے سے اسے اسم فاعل بنا دیتا ہے اور لکھنے والے کے معنی دیتا ہے جیسے انصاف لکھا۔
نگار رومی - (۱۳) صفت، فرہادی محبوبہ تیسری مراد۔
نگار ہندی - (۱۴) صفت، (۱۵) ہندی لگانا - جنا ہندی - ہندی سے نقش بنانا۔
نگارندہ - (۱۶) صفت، لکھنے والا۔
نگار خانہ - (۱۷) صفت، تصویر خانہ - پتھر کی گیلری۔
نگارستان - (۱۸) صفت، نگار خانہ - تصویر خانہ۔
نگار عالم - (۱۹) صفت، بہت حسین - بے حد خوبصورت۔
نگار کش - (۲۰) صفت، (۲۱) (۲۲) صفت، (۲۳) صفت، (۲۴) صفت، (۲۵) صفت، (۲۶) صفت، (۲۷) صفت، (۲۸) صفت، (۲۹) صفت، (۳۰) صفت، (۳۱) صفت، (۳۲) صفت، (۳۳) صفت، (۳۴) صفت، (۳۵) صفت، (۳۶) صفت، (۳۷) صفت، (۳۸) صفت، (۳۹) صفت، (۴۰) صفت، (۴۱) صفت، (۴۲) صفت، (۴۳) صفت، (۴۴) صفت، (۴۵) صفت، (۴۶) صفت، (۴۷) صفت، (۴۸) صفت، (۴۹) صفت، (۵۰) صفت، (۵۱) صفت، (۵۲) صفت، (۵۳) صفت، (۵۴) صفت، (۵۵) صفت، (۵۶) صفت، (۵۷) صفت، (۵۸) صفت، (۵۹) صفت، (۶۰) صفت، (۶۱) صفت، (۶۲) صفت، (۶۳) صفت، (۶۴) صفت، (۶۵) صفت، (۶۶) صفت، (۶۷) صفت، (۶۸) صفت، (۶۹) صفت، (۷۰) صفت، (۷۱) صفت، (۷۲) صفت، (۷۳) صفت، (۷۴) صفت، (۷۵) صفت، (۷۶) صفت، (۷۷) صفت، (۷۸) صفت، (۷۹) صفت، (۸۰) صفت، (۸۱) صفت، (۸۲) صفت، (۸۳) صفت، (۸۴) صفت، (۸۵) صفت، (۸۶) صفت، (۸۷) صفت، (۸۸) صفت، (۸۹) صفت، (۹۰) صفت، (۹۱) صفت، (۹۲) صفت، (۹۳) صفت، (۹۴) صفت، (۹۵) صفت، (۹۶) صفت، (۹۷) صفت، (۹۸) صفت، (۹۹) صفت، (۱۰۰) صفت۔

آرستہ (۱) مشوق - محبوب۔
نگالی - (۲) نگالی، (۳) صفت، (۴) صفت، (۵) صفت، (۶) صفت، (۷) صفت، (۸) صفت، (۹) صفت، (۱۰) صفت، (۱۱) صفت، (۱۲) صفت، (۱۳) صفت، (۱۴) صفت، (۱۵) صفت، (۱۶) صفت، (۱۷) صفت، (۱۸) صفت، (۱۹) صفت، (۲۰) صفت، (۲۱) صفت، (۲۲) صفت، (۲۳) صفت، (۲۴) صفت، (۲۵) صفت، (۲۶) صفت، (۲۷) صفت، (۲۸) صفت، (۲۹) صفت، (۳۰) صفت، (۳۱) صفت، (۳۲) صفت، (۳۳) صفت، (۳۴) صفت، (۳۵) صفت، (۳۶) صفت، (۳۷) صفت، (۳۸) صفت، (۳۹) صفت، (۴۰) صفت، (۴۱) صفت، (۴۲) صفت، (۴۳) صفت، (۴۴) صفت، (۴۵) صفت، (۴۶) صفت، (۴۷) صفت، (۴۸) صفت، (۴۹) صفت، (۵۰) صفت، (۵۱) صفت، (۵۲) صفت، (۵۳) صفت، (۵۴) صفت، (۵۵) صفت، (۵۶) صفت، (۵۷) صفت، (۵۸) صفت، (۵۹) صفت، (۶۰) صفت، (۶۱) صفت، (۶۲) صفت، (۶۳) صفت، (۶۴) صفت، (۶۵) صفت، (۶۶) صفت، (۶۷) صفت، (۶۸) صفت، (۶۹) صفت، (۷۰) صفت، (۷۱) صفت، (۷۲) صفت، (۷۳) صفت، (۷۴) صفت، (۷۵) صفت، (۷۶) صفت، (۷۷) صفت، (۷۸) صفت، (۷۹) صفت، (۸۰) صفت، (۸۱) صفت، (۸۲) صفت، (۸۳) صفت، (۸۴) صفت، (۸۵) صفت، (۸۶) صفت، (۸۷) صفت، (۸۸) صفت، (۸۹) صفت، (۹۰) صفت، (۹۱) صفت، (۹۲) صفت، (۹۳) صفت، (۹۴) صفت، (۹۵) صفت، (۹۶) صفت، (۹۷) صفت، (۹۸) صفت، (۹۹) صفت، (۱۰۰) صفت۔

ن-گ

نگاہ - (۱) محاورہ، (۲) محاورہ، (۳) محاورہ، (۴) محاورہ، (۵) محاورہ، (۶) محاورہ، (۷) محاورہ، (۸) محاورہ، (۹) محاورہ، (۱۰) محاورہ، (۱۱) محاورہ، (۱۲) محاورہ، (۱۳) محاورہ، (۱۴) محاورہ، (۱۵) محاورہ، (۱۶) محاورہ، (۱۷) محاورہ، (۱۸) محاورہ، (۱۹) محاورہ، (۲۰) محاورہ، (۲۱) محاورہ، (۲۲) محاورہ، (۲۳) محاورہ، (۲۴) محاورہ، (۲۵) محاورہ، (۲۶) محاورہ، (۲۷) محاورہ، (۲۸) محاورہ، (۲۹) محاورہ، (۳۰) محاورہ، (۳۱) محاورہ، (۳۲) محاورہ، (۳۳) محاورہ، (۳۴) محاورہ، (۳۵) محاورہ، (۳۶) محاورہ، (۳۷) محاورہ، (۳۸) محاورہ، (۳۹) محاورہ، (۴۰) محاورہ، (۴۱) محاورہ، (۴۲) محاورہ، (۴۳) محاورہ، (۴۴) محاورہ، (۴۵) محاورہ، (۴۶) محاورہ، (۴۷) محاورہ، (۴۸) محاورہ، (۴۹) محاورہ، (۵۰) محاورہ، (۵۱) محاورہ، (۵۲) محاورہ، (۵۳) محاورہ، (۵۴) محاورہ، (۵۵) محاورہ، (۵۶) محاورہ، (۵۷) محاورہ، (۵۸) محاورہ، (۵۹) محاورہ، (۶۰) محاورہ، (۶۱) محاورہ، (۶۲) محاورہ، (۶۳) محاورہ، (۶۴) محاورہ، (۶۵) محاورہ، (۶۶) محاورہ، (۶۷) محاورہ، (۶۸) محاورہ، (۶۹) محاورہ، (۷۰) محاورہ، (۷۱) محاورہ، (۷۲) محاورہ، (۷۳) محاورہ، (۷۴) محاورہ، (۷۵) محاورہ، (۷۶) محاورہ، (۷۷) محاورہ، (۷۸) محاورہ، (۷۹) محاورہ، (۸۰) محاورہ، (۸۱) محاورہ، (۸۲) محاورہ، (۸۳) محاورہ، (۸۴) محاورہ، (۸۵) محاورہ، (۸۶) محاورہ، (۸۷) محاورہ، (۸۸) محاورہ، (۸۹) محاورہ، (۹۰) محاورہ، (۹۱) محاورہ، (۹۲) محاورہ، (۹۳) محاورہ، (۹۴) محاورہ، (۹۵) محاورہ، (۹۶) محاورہ، (۹۷) محاورہ، (۹۸) محاورہ، (۹۹) محاورہ، (۱۰۰) محاورہ۔

غیر رکھنے کیلئے ٹین یادداشت کرائیں۔
 ٹوٹا۔ (ن۔ 7)۔ نا، (5)۔ مص، گھاس پھوس سے کہیت کی
 صفائی کرنا۔
 نوائی۔ (ن۔ 10)۔ ای، (5)۔ مرث، نوانے کی اجرت۔
 ٹلوہ۔ (ن۔ 7)۔ (5)۔ ص، (1)۔ بے لوث، خالص۔ صاف (2)۔ کھرے
 کھرے (3)۔ مفت میں ترالفع (4)۔ بے مشقت (5)۔ وہ کام جو
 بے اعانت اور بلا شرکت غیرے کیا جائے، (4)۔ وہ روپیہ جو بلا
 محنت مل جائے۔
 زلوہ آگ، جو جانا۔ (17)۔ محاورہ، کورا پنج جانا۔ بغیر کسی گزند کے بچ
 کر نکل جانا
 زلوہ جلا جانا۔ (13)۔ محاورہ، صاف جلا جانا۔ لے لاگ چلا جانا۔
 نلی۔ (ن۔ 7)۔ (5)۔ مرث، نئے۔ نال۔ بندٹی کی پڑی (2)۔ جو لاسے
 کی نالی (3)۔ بندوق کی نالی (4)۔ نزل جو اندر سے خالی ہو۔
 نلیا۔ (ن۔ 7)۔ (5)۔ اند، (1)۔ جڑی مار، حیتما (2)۔ (5)۔ (1)۔ مرث، نالی کی
 تصغیر۔ جھوٹی نلی۔ جھوٹی نالی۔

نگورانا ٹھا۔ (1)۔ (5)۔ ص، (1)۔ لادارث بے اولاد (2)۔ وہ شخص جس کے
 کوئی آگے پیچھے نہ ہو۔
 نگورسی۔ (ن۔ 7)۔ (5)۔ ص، (1)۔ سیکس عورت۔ بد نصیب۔ بے
 وارث۔ نکوڑائی تانیت۔
 نگول۔ (ن۔ 7)۔ (5)۔ ص، (2)۔ نچیدہ (2)۔ اوندھا۔ اٹل۔
 بنگول، سخت۔ (7)۔ ص، (2)۔ بد نصیب۔ بد قسمت۔
 بنگول سار۔ (7)۔ ص، (1)۔ اوندھا (2)۔ شرم سے سر جھکائے ہوئے۔
 نکول ہمت۔ (7)۔ ص، (1)۔ کم حوصلہ۔ کمزور۔
 ننگ۔ (ن۔ 7)۔ (1)۔ مرث، (1)۔ نگاہ کا تحفہ دیکھیے مرکبات نگاہ
 کے ذیل ہیں۔
 ننگت۔ (ن۔ 7)۔ مرث، (1)۔ دیکھیے نکبت خوشبو۔ جبک۔
 نکھر ا۔ (ن۔ 7)۔ (5)۔ ص، (1)۔ بے گھر خانہ بدوس۔ بے خانان۔
 نکھر گھٹ۔ (ن۔ 7)۔ (5)۔ ص، (1)۔ شوخ چشم۔
 نگیانی۔ (ن۔ 7)۔ (1)۔ (5)۔ ص، (1)۔ اے احتیاط (2)۔ دل کا
 بودا (3)۔ بے عقل۔
 نکس۔ (ن۔ 7)۔ (1)۔ مرث، (1)۔ نکینہ۔ ننگ۔ جواہر۔
 نکینہ۔ (ن۔ 7)۔ (1)۔ نک۔ (7)۔ (1)۔ مرث، (1)۔ جواہر قیمتی پتھر۔
 نکینہ جڑنا۔ (13)۔ محاورہ، زور میں ننگ نصب کرنا۔
 نکینہ ساز۔ (7)۔ ص، (1)۔ جواہرات تراشنے والا۔
 نکینہ کی چوڑیاں۔ (17)۔ مرث، (1)۔ چوڑیاں جن میں ننگ جڑے ہوں۔

ن - م

نم۔ (7)۔ ص، (1)۔ گیلا پن۔ مرطوب۔ سیل۔ (2)۔ ٹر۔ گیلا۔
 مرطوب (3)۔ طراوت۔
 نم خوردہ (ویدہ۔ رسیدہ، (7)۔ ص، (1)۔ سیلا ہوا۔ مرطوب۔
 نم اکر۔ (7)۔ ص، (1)۔ نمی جذب کر لینے والا۔
 نم چکر۔ (7)۔ ص، (1)۔ وہ پورا جو اس کی نمی جذب کر لینے کیلئے پلنگ پر
 چھت گیری کی طرح ڈال دیتے ہیں۔ شامیانہ۔ سامیان۔
 نم نامک۔ (7)۔ ص، (1)۔ تر۔ گیلا۔ بھیکا ہوا۔ مرطوب۔
 نم۔ (7)۔ (1)۔ مرث، (1)۔ نہدی۔ نہر۔
 نما۔ (ن۔ 7)۔ (5)۔ ص، (1)۔ دکھانے والا۔ نظاہر کرنے والا (2)۔ مرکبات
 میں لاف کے طور پر استعمال ہوتا ہے جیسے قیلہ نما۔
 نماز۔ (ن۔ 7)۔ (5)۔ مرث، (1)۔ بندگی۔ پرستش (2)۔ نیاز۔ عاجزی
 افسار (3)۔ اہل اسلام کی عبادت۔
 نماز آنا۔ (17)۔ محاورہ، نماز کی ترکیب معلوم ہونا۔ نماز پڑھنے کا
 سلیقہ ہونا۔
 نماز ادا ہونا۔ (17)۔ محاورہ، نماز پڑھا جانا۔ وقت مقررہ پر نماز پڑھا جانا۔
 نماز استقامت۔ (7)۔ (5)۔ (1)۔ مرث، (1)۔ وہ نماز جس میں بارش کے
 واسطے دعا کی جاتی ہے۔
 نماز باجماعت۔ (7)۔ (5)۔ (1)۔ مرث، (1)۔ جماعت کے ساتھ نماز
 پڑھی جانا۔
 نماز پڑھنا۔ (17)۔ محاورہ، (1)۔ بندگی کا نماز پڑھنا شروع کرنا (2)۔
 نماز ادا کرنے کے واسطے کھڑا ہونا۔

ن - ل

نمل۔ (5)۔ (1)۔ مرث، (1)۔ موٹی نم (2)۔ اندر سے کھوکھلی گول اور لمبی چیز
 (3)۔ نال (4)۔ بالٹ کا ٹنوار (5)۔ نکل۔ سرنگٹا۔
 نمل گوال۔ (1)۔ مرث، (1)۔ وہ کھول جس سے نمل کے ذریعے پانی نکالا جائے۔
 نمل ٹیوب ویل۔ (Tubewell)
 نمل کھونچا۔ (1)۔ مرث، (1)۔ سریش لگا کر چڑیاں پکڑنے کی بڑی سی پھڑ۔
 نلا۔ (ن۔ 7)۔ (5)۔ مرث، (1)۔ پیشاب کی نالی (2)۔ ناف کی مانند ایک پٹھا۔
 نلا۔ (3)۔ پاؤں کی بڑی ہم، (7)۔ نمل۔
 نلال جانا۔ (13)۔ محاورہ، نلے کا اپنی جگہ سے مرک جانا۔
 نلانا۔ (ن۔ 7)۔ (5)۔ مرث، (1)۔ گھاس پھوس سے کھاس پھوس صاف کرنا۔
 نلا ہٹ۔ (ن۔ 7)۔ (5)۔ مرث، (1)۔ نلی رنگت۔
 نلانی۔ (ن۔ 7)۔ (5)۔ مرث، (1)۔ کہیت ٹھانے کی اجرت (2)۔
 نلنے کا کام۔
 نلنا۔ نلنا۔ (ن۔ 7)۔ (5)۔ مرث، (1)۔ مرث، (1)۔ مرث، (1)۔ مرث، (1)۔
 نلنا۔ (7)۔ ص، (1)۔ بے حیا بے شرم۔ بے غیرت۔
 نلکا۔ (17)۔ ص، (1)۔ جھوٹا نل۔ ہینڈ ٹیپ۔
 نلوا۔ (ن۔ 7)۔ (5)۔ مرث، (1)۔ نل کی تصغیر (2)۔ جھوٹا سا نل (2)۔ کاغذ

نماز پنج گانہ - (ن-۱)۔ مدت پانچوں وقت کی نماز۔
 نماز پیشین - (ن-۱)۔ مدت پانچ کی نماز۔
 نماز جانا - (ن-۱)۔ محاورہ نماز کا قضا ہونا۔ بروقت نماز ادا نہ کر سکرنا۔
 نماز جنازہ - (ن-۱)۔ ع- (ن-۱)۔ مدت وہ نماز جو مردے کی لاش پر کھڑے
 ہی کھڑے پڑھتے ہیں۔
 نماز جاہلیت - (ن-۱)۔ مدت طلوع آفتاب کے کچھ دیر بعد جو نماز
 پڑھی جاتی ہے۔
 نماز خسوف - (ن-۱)۔ ع- (ن-۱)۔ مدت وہ نماز جو چاند گرہن کے وقت
 پڑھتے ہیں۔
 نماز شام - (ن-۱)۔ مدت مغرب کی نماز جو آفتاب غروب ہونے
 بعد پڑھی جاتی ہے۔
 نماز شکر - (ن-۱)۔ ع- (ن-۱)۔ مدت شکر کرنے کی نماز۔
 نماز ظہر - (ن-۱)۔ ع- (ن-۱)۔ مدت وہ نماز جو دوپہر ڈھلے پڑھی جاتی ہے۔
 نماز عصر - (ن-۱)۔ ع- (ن-۱)۔ مدت تیسرے پیر کی نماز جو غروب آفتاب سے
 کچھ دیر پہلے پڑھی جاتی ہے۔
 نماز عشاء - (ن-۱)۔ ع- (ن-۱)۔ مدت وہ نماز جو مغرب کے بعد پڑھی
 جاتی ہے۔ رات کی نماز۔
 نماز عید - (ن-۱)۔ مدت وہ نماز جو عید کے دن عید گاہ میں
 ادا کی جاتی ہے۔
 نماز فجر - (ن-۱)۔ مدت صبح کی نماز جو سورج طلوع ہونے سے
 پہلے پڑھی جاتی ہے۔
 نماز قصر - (ن-۱)۔ مدت وہ مختصر نماز جو حالت سفر میں کم
 کر کے پڑھی جاتی ہے۔
 نماز قضا - (ن-۱)۔ مدت وہ نماز جو وقت پر نہ پڑھی جاسکی ہو اور
 بعد میں قضا کر کے پڑھی جائے۔
 نماز قضا کرنا - (ن-۱)۔ محاورہ وقت مینہ پر نماز نہ پڑھنا۔
 نماز کسوف - (ن-۱)۔ مدت وہ نماز جو سورج گہن کے وقت
 پڑھی جاتی ہے۔
 نماز کو چھڑانے کے روزے گلے بڑے - (ن-۱)۔ مثل ایک کام سے
 ہتھیار چھڑانے کی کوشش میں دوسری ہم ذمے پڑگئی۔
 نماز گزار - (ن-۱)۔ صفت نماز ادا کرنے والا (ن-۱)۔ یا بند نماز۔
 نماز وتر - (ن-۱)۔ مدت عشا کی نماز میں جو تین رکعت نماز
 پڑھی جاتی ہے۔
 نماز وحشت - (ن-۱)۔ صفت وہ نماز جو کسی شخص کی موت کے
 بعد پہلی رات کو پڑھی جاتی ہے۔
 نمازی - (ن-۱)۔ ماضی (ن-۱)۔ صفت نماز پڑھنے والا۔ نماز کا یا بند۔
 نمازی کا لگاؤ - (ن-۱)۔ مدت بدی کا بدلہ۔ فعل بد کی سزا۔ وہ بات جس کی سزا
 کسی نے کسی موقع پر پائی ہے۔
 نمازی کھڑے - (ن-۱)۔ مدت پاک لباس ایسے کپڑے جن سے نماز
 پڑھی جاسکے۔

نما شام - (ن-۱)۔ ما۔ شام، (ن-۱)۔ صفت شام۔
 نمام - (ن-۱)۔ م۔ عام بارے صفت، چل خور۔ ادھر کی ادھر کہنے والا۔ سزا
 نمانا - (ن-۱)۔ ما۔ نا، (ن-۱)۔ صفت، جھکانا (ن-۱)۔ صفت، مسکین۔ عاجز
 و سادہ۔
 نمائش - (ن-۱)۔ ما۔ اش، (ن-۱)۔ مدت (ن-۱)۔ دکھاوا۔ نمود (ن-۱)۔ ظہور (ن-۱)۔
 زرعی پیداوار، مصنوعات یا دوسری مفید اور دلچسپ چیزوں کو کسی
 خاص جگہ پر لوگوں کو دکھانا یا فروخت کرنا۔
 نمائش گاہ - (ن-۱)۔ مدت (ن-۱)۔ مدت وہ مقام جہاں نمائش منعقد ہو۔
 نمائشی - (ن-۱)۔ ما۔ اشی، (ن-۱)۔ صفت، دکھاوے کا۔ ظاہر میں اچھا۔
 نمائندگی - (ن-۱)۔ ما۔ اندگی، (ن-۱)۔ مدت (ن-۱)۔ قائم مقامی کسی کی جگہ پر
 موجود ہونا۔ کسی تقریب میں کسی ملک۔ نظریہ جماعت یا گروہ کے ترجمان
 کی حیثیت سے شریک ہونا۔
 نمائندہ - (ن-۱)۔ ما۔ ان، (ن-۱)۔ مدت (ن-۱)۔ مدت (ن-۱)۔ دکھانے والا۔ قائم مقام
 ترجمان جمع۔ نمائندگان۔
 نمائی - (ن-۱)۔ ما۔ ای، (ن-۱)۔ مدت (ن-۱)۔ ظہور۔ اعلان۔ اشاعت۔ برکات
 میں مستعمل ہے جیسے خوش نمائی۔ خود نمائی۔
 نمائیاں - (ن-۱)۔ ما۔ یایں، (ن-۱)۔ صفت (ن-۱)۔ ظاہر عیاں۔ علانیہ۔ آشکارا (ن-۱)۔
 مشہور۔ نامور (ن-۱)۔ نکلا ہوا۔ اچھا (ن-۱)۔
 نمبر - (Number) (ن-۱)۔ م۔ بزرگ (ن-۱)۔ انگ (ن-۱)۔ مدت (ن-۱)۔ تعداد (ن-۱)۔ درجہ
 رس۔ باری۔ نوبت۔
 نمبر بڑھ جانا - (ن-۱)۔ محاورہ (ن-۱)۔ سبقت لے جانا۔
 نمبر چھیننا - (ن-۱)۔ محاورہ (ن-۱)۔ ایک کا دوسرے پر سبقت لے جانا۔
 نمبر دار - (ن-۱)۔ صفت وہ شخص جو کسی گاؤں یا اس کے کسی حصہ کی سرکاری
 مال گزاری و موصول کر کے سرکاری خزانے میں داخل کرتا ہے۔
 نمبر دینا - (ن-۱)۔ محاورہ (ن-۱)۔ امتحان میں تمہیں کا مفروضہ نمبروں میں سے نمبر دینا
 پڑھنا۔ معیار مقرر کرنا۔
 نمبر ڈالنا - (ن-۱)۔ محاورہ (ن-۱)۔ نمبر کے لیے نشان ڈالنا۔
 نمبر لگانا - (ن-۱)۔ محاورہ (ن-۱)۔ ترتیب سے نمبر کے نشان ڈالنا۔
 نمبر سنی - (ن-۱)۔ م۔ ب۔ رنی، (ن-۱)۔ صفت (ن-۱)۔ نمبر سے نسبت رکھنے والا (ن-۱)۔
 مشہور۔ بدنام۔ جیسے نمبر سنی بد معاش۔
 نمبر سنی نالاش - (ن-۱)۔ مدت (ن-۱)۔ باقاعدہ نالاش۔ عدالت مال کی نالاش۔
 نمٹانا - (ن-۱)۔ م۔ ٹا۔ نا، (ن-۱)۔ مص (ن-۱)۔ جھگڑنا۔ چکانا۔ سبے بان کرنا۔
 (ن-۱)۔ ختم کر دینا۔
 نمٹا ہوا - (ن-۱)۔ صفت (ن-۱)۔ جھگڑتا ہوا (ن-۱)۔ تجسہ بہ کار۔ جہاں دیدہ۔
 سیانا۔
 نمٹنا - (ن-۱)۔ مٹ۔ نا، (ن-۱)۔ مص، جھگڑنا۔ چکانا۔ بے باقی کرنا۔ نارغ
 ہونا۔ ختم کرنا۔
 نمند - (ن-۱)۔ م۔ (ن-۱)۔ م۔ (ن-۱)۔ نمند۔ اُون یا چشم کا بستر۔ ملائم ہالٹ
 کا بستر۔
 نمند پوش - (ن-۱)۔ صفت (ن-۱)۔ کٹ پوش۔ وہ شخص جو پستین یا پٹو کا لباس

نمک چکھنا - (۱۷- محاورہ) کھانے کو اس عرض سے چکھنا کہ نمک کی کمی بیشی کا پتہ چل جائے۔

نمک چھڑکنا - (۱۷- محاورہ) ستانا، تکلیف میں اضافہ کرنا۔
نمک حرام - (۱۷- مع- صفت) ناشکر۔ وہ ملازم جو اپنے آقا کا بند خواہ ہو۔

نمک حرامی - (۱۷- مع- صفت) ناشکر۔ آقا سے بے وفائی۔
نمک حلال - (۱۷- مع- صفت) احسان مند۔ شکر گزار۔ حق شناس۔ اپنے آقا کا خیر خواہ۔

نمک حلالی - (۱۷- مع- صفت) خیر خواہی، شکر گزاری، حق شناسی۔
نمک حلالی کرنا - (۱۷- مع- صفت) اپنے ملک کی خیر خواہی اور ہمدردی کرنا۔

نمک خوار - (۱۷- مع- صفت) ملازم، گھر میں پرورش کیا ہوا۔
نمک خوردن و کھلوان - (۱۷- مع- صفت) محسن کشی کرنا۔ احسان فراموشی اور ناشکر گزار ہونا۔

نمکدان - (۱۷- مع- صفت) نمک رکھنے کا برتن۔
نمک نزار - (۱۷- مع- صفت) نمک پیدا ہونے والی جگہ۔
نمک کی کان۔

نمک زہر کر دینا - (۱۷- محاورہ) بہت سا نمک ڈال دینا۔
نمک زہر ہو جانا - (۱۷- محاورہ) کھانے میں نمک بہت زیادہ بڑھانا۔

نمک سنگ - (۱۷- مع- صفت) نمک کا ٹکڑا۔
نمک شیر ہونا - (۱۷- محاورہ) کھلنے میں نمک تیز ہونا۔
نمک کا اثر - (۱۷- مع- صفت) وہ اثر جو کسی کی دی، بھولی، روزی کھانے سے ہو۔

نمک کا پاس - (۱۷- مع- صفت) کسی کی دی، بھولی، روزی کھانے کا لحاظ۔
نمک کا بیج ادا کرنا - (۱۷- محاورہ) وفاداری کرنا۔ نمک حلالی کرنا۔ ملک کی خیر خواہی کرنا۔

نمک کا سہارا - (۱۷- مع- صفت) سہارا، سہارا۔
نمک کھانا - (۱۷- محاورہ) کسی کی ذمہ داری کرنا۔ کسی کی دی، بھولی، روزی کھانا۔
نمک کی قسم - (۱۷- مع- صفت) وفاداری ظاہر کرنے کو نمک کی قسم کھاتے ہیں۔

نمک کی کٹنگری کا سہارا - (۱۷- مع- صفت) سہارا، سہارا۔
نمک کی کٹنگری کا سہارا - (۱۷- مع- صفت) سہارا، سہارا۔

نمک کی کٹنگری حرام ہونا - (۱۷- محاورہ) بالکل فاقہ سے ہونا۔
نمک کی مار ٹرنا - (۱۷- محاورہ) نمک حرامی کی سزا دینا۔
نمک مریح چھڑکنا - (۱۷- محاورہ) بہت دکھ دینا۔ کمال ایذا دینا۔

نمک مریح ٹکانا - (۱۷- محاورہ) داسے دارنانا خوش ذائقہ بنانا (۲)۔
مباذت کرنا - (۱۷- مع- صفت) بڑھا کر بیان کرنا (۳)۔
نمک مریح ٹکانا - (۱۷- محاورہ) داسے دارنانا خوش ذائقہ بنانا (۲)۔

نمک مریح ٹکانا - (۱۷- مع- صفت) بڑھا کر بیان کرنا (۳)۔
نمک مریح ٹکانا - (۱۷- مع- صفت) بڑھا کر بیان کرنا (۳)۔
نمک مریح ٹکانا - (۱۷- مع- صفت) بڑھا کر بیان کرنا (۳)۔

نمک مریح ٹکانا - (۱۷- مع- صفت) بڑھا کر بیان کرنا (۳)۔
نمک مریح ٹکانا - (۱۷- مع- صفت) بڑھا کر بیان کرنا (۳)۔

نمک مریح ٹکانا - (۱۷- مع- صفت) بڑھا کر بیان کرنا (۳)۔
نمک مریح ٹکانا - (۱۷- مع- صفت) بڑھا کر بیان کرنا (۳)۔

نمک مریح ٹکانا - (۱۷- مع- صفت) بڑھا کر بیان کرنا (۳)۔
نمک مریح ٹکانا - (۱۷- مع- صفت) بڑھا کر بیان کرنا (۳)۔

نمک مریح ٹکانا - (۱۷- مع- صفت) بڑھا کر بیان کرنا (۳)۔
نمک مریح ٹکانا - (۱۷- مع- صفت) بڑھا کر بیان کرنا (۳)۔

نمک مریح ٹکانا - (۱۷- مع- صفت) بڑھا کر بیان کرنا (۳)۔
نمک مریح ٹکانا - (۱۷- مع- صفت) بڑھا کر بیان کرنا (۳)۔

نمک مریح ٹکانا - (۱۷- مع- صفت) بڑھا کر بیان کرنا (۳)۔
نمک مریح ٹکانا - (۱۷- مع- صفت) بڑھا کر بیان کرنا (۳)۔

نمک مریح ٹکانا - (۱۷- مع- صفت) بڑھا کر بیان کرنا (۳)۔
نمک مریح ٹکانا - (۱۷- مع- صفت) بڑھا کر بیان کرنا (۳)۔

نمک مریح ٹکانا - (۱۷- مع- صفت) بڑھا کر بیان کرنا (۳)۔
نمک مریح ٹکانا - (۱۷- مع- صفت) بڑھا کر بیان کرنا (۳)۔

نمک مریح ٹکانا - (۱۷- مع- صفت) بڑھا کر بیان کرنا (۳)۔
نمک مریح ٹکانا - (۱۷- مع- صفت) بڑھا کر بیان کرنا (۳)۔

نمک مریح ٹکانا - (۱۷- مع- صفت) بڑھا کر بیان کرنا (۳)۔
نمک مریح ٹکانا - (۱۷- مع- صفت) بڑھا کر بیان کرنا (۳)۔

نمک مریح ٹکانا - (۱۷- مع- صفت) بڑھا کر بیان کرنا (۳)۔
نمک مریح ٹکانا - (۱۷- مع- صفت) بڑھا کر بیان کرنا (۳)۔

نمک مریح ٹکانا - (۱۷- مع- صفت) بڑھا کر بیان کرنا (۳)۔
نمک مریح ٹکانا - (۱۷- مع- صفت) بڑھا کر بیان کرنا (۳)۔

نمک مریح ٹکانا - (۱۷- مع- صفت) بڑھا کر بیان کرنا (۳)۔
نمک مریح ٹکانا - (۱۷- مع- صفت) بڑھا کر بیان کرنا (۳)۔

نمک مریح ٹکانا - (۱۷- مع- صفت) بڑھا کر بیان کرنا (۳)۔
نمک مریح ٹکانا - (۱۷- مع- صفت) بڑھا کر بیان کرنا (۳)۔

ننگا - (۱۱۔ صفت) را، برہنہ۔ عریاں (۲۱)۔ بے جیا۔ بے شرم۔ بے عزت (۳۱)۔ لجا۔ شہدا (۳۱)۔ مفلس۔ قلاش۔
 ننگا لوجا - (۱۷۔ محاورہ) مفلس۔ قلاش۔
 ننگا بونجا سب سے اونچا - (۱۶۔ مثل) مجرّد اور بے سرمایہ بالکل بے فکر ہوتا ہے۔
 ننگا بھوکا - (۱۶۔ صفت) جس کے پاس نہ پینے کو کپڑا ہو نہ کھانے کو روٹی۔
 ننگا جھوڑی - (۱۶۔ صفت) بالکل ننگا کر کے تماشائی لینا۔
 ننگا دھڑنگا - (۱۶۔ صفت) بالکل ننگا۔ عریاں۔ برہنہ۔
 ننگا ساٹھ روپے کاے میں بیسے کھائے - (۱۶۔ مثل) جس کے پوی نیچے نہ ہوں۔ بہت کم خرچ کرتا ہے۔
 ننگا سب سے چنگا - (۱۷۔ مثل) بے حیا کسی کا لیا ظاہر نہیں ہوتا۔
 ننگا کر دینا - (۱۶۔ محاورہ) ۱۔ کپڑے اتار لینا۔ برہنہ کر دینا (۲)۔ لوٹ لینا (۳)۔ زیور اتار لینا (۴)۔ کچھ نہ چھوڑنا۔
 ننگا کھڑا اُچھاڑ میں ہے کوئی کپڑے لے - (۱۶۔ مثل) عزیز اور مفلس سے کسی نے کیا لینا ہے۔

ننھیا بھولا - (۱۶۔ صفت) نادان۔ کم عقل۔
 ننھیا سا جیوڑا - (۱۶۔ صفت) چھوٹا بچہ۔
 ننھیا سا کلیجہ - (۱۶۔ مذ) چھوٹا سا کلیجہ۔ بچے کا کلیجہ۔
 ننھیا سا منہ نہ بھری زبان - (۱۶۔ مثل) چھوٹی حیثیت مگر بڑھ چڑھ کر باتیں کرنا۔
 ننھیا منٹا - (۱۶۔ صفت) بہت چھوٹا سا۔
 ننھیال - ننھیال - (ننھ - یال، دن - ن، ہال، ۵۶ - ۱۔ منٹ) نانا کا گھر۔ نانا کا خاندان۔
 ننھی - (نن - ہنٹی) (۵۶۔ صفت) ننھیا کی تائیت۔ چھوٹی بچی۔ چھوٹی عورت۔
 ننھی کا - (۱۶۔ مذ) ننھی عورت کا بیٹا، بوا (۲)۔ بیوقوف۔ احمق۔ نادان۔
 ننھیال بھولا بھالا - سادہ۔
 ننھیال ننھیا - (نن - ننھ - یا، نن - یا) (۵۶ - ۱۔ صفت) نانا کا۔ نانا یا نانی سے متعلق۔
 ننھیا (ننھیا) ساس - (۱۶۔ منٹ) زوجہ یا شوہر کی نانی۔
 ننھیا (ننھیا) سسر - (۱۶۔ مذ) زوجہ یا شوہر کا نانا۔
 ننھیا نانا - (نن - یا نانا) (۱۶۔ منٹ) منٹ کرنا۔ عاجزی کرنا۔

ن۔و

ننگا کھلا - (۱۶۔ صفت) بالکل ننگا۔
 ننگا لجا - (۱۶۔ صفت) مفلس۔ بد معاش۔
 ننگا ماڈر زاد - (۱۶۔ صفت) ایسا ننگا جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔
 ننگوں کو بھوکوں نے لوٹ لیا - (۱۶۔ مثل) بد معاشوں نے بد معاشوں کے ساتھ بد سلوکی کی۔
 ننگوں کی بستری - (۱۶۔ منٹ) وہ مقام جہاں کوئی قاعدہ قانون نہ ہو۔
 ننگے پاؤں ننگے سر - (۱۶۔ مثل) حیران پریشان۔ گھبرایا ہوا۔
 مصیبت زدہ۔
 ننگے پاؤں ہونا - (۱۶۔ محاورہ) غصے میں آنا۔
 ننگا نانا - (نن - گانا) (۱۶۔ منٹ) خوب ٹوٹنا۔
 ننگائی - (نن - گائی) (۵۶ - ۱۔ منٹ) عریانی۔ ننگا پن۔
 ننگی - (نن - گئی) (۵۶۔ صفت) را، ننھیا کی تائیت (۲)۔ بغیر زیور کی جس کے پاس زیور نہ ہو۔ برہنہ۔
 ننگی تلوار - (۱۶۔ منٹ) را، میان سے نکلنے والی تلوار (۲)۔ صاف گو آدمی (۳)۔ بے خوف۔
 ننگی کیا ہنٹے گی کیا خورے گی - (۱۶۔ مثل) مفلس اگر وصل والا بھی ہو تو کیا خرچ کرے گا بے سرمایہ کی کچھ حقیقت نہیں۔
 ننگی ناچنا - (۱۶۔ محاورہ) عورت، بوکر لچا پن کرنا۔
 ننگیا نہ - (۱۶۔ منٹ) چھین لینا۔ ہلک کر جانا۔
 ننھیا - (نن - ننھا) (۵۶۔ صفت) را، چھوٹا سا (۲)۔ نادان۔ نامسمجھ (۳)۔ لاڈلا۔ پیارا (۴)۔ چھوٹا بچہ۔
 ننھیا بننا - (۱۶۔ محاورہ) جان بوجھ کر نادان یا ناداقت بننا۔
 انجان بننا۔

نو - (۵۶۔ صفت) را، آٹھ اور ایک - ایک کم دس - ۹۔
 نواں - (۱۶۔ عدد) ترتیب میں آٹھ کے بعد کا درجہ۔
 نو خوری - (۵۶۔ منٹ) ایک ٹھکانا جو اجناسوں سے کھلیا جاتا ہے۔
 نو تیرہ بالیس تبادینا - (۱۶۔ محاورہ) ٹال مٹول کرنا۔ جیلے حوالے کرنا۔
 لیت وصل کرنا۔
 نورتنج - (۱۶۔ لوجا ہرات - موتی - ہیرا - زمرد - لعل - نیلم پھراچ - مونگا - لاجورد اور یاقوت (۲) قابل آدمیوں کی کینسل۔
 اکبر اور بکر ماجیت کے نورتن مشہور ہیں (۳)۔ ایک قسم کا زرد و چہ بازوڈل پر پہنا جاتا ہے - (۴)۔ ایک خاص قسم کی چٹنی۔
 نوسو - (۱۶۔ عددی مرکب) را، نو سیکڑے (۲)۔ بہت - بہت سے۔ بے انتہا۔
 نوسو چہے کھا کے ملی جگ کو چلی - (۱۶۔ مثل) بہت سے گناہ کر کے بڑھاپا ہونے کی کوشش کرنا۔
 نوٹھی - (۱۶۔ منٹ) ایک کھیل جس میں زمین پر چند غلے بنا کر ۹ ٹھیکریوں یا ٹوٹیوں سے کھیلتے ہیں۔
 نوکرہ - (۱۶۔ مذ) زانچ میں نو سیاروں کی گردش اُن کا اثر اور نام نوکرہ ہی - (۱۶۔ منٹ) ہاتھوں کا ایک زیور۔ پہنچے جس میں ٹونگ یا جواہرات چڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ نوکری۔
 نو لکھنا - (۱۶۔ صفت) لڑاکا۔ نہایت تھمتی۔

لوگھار - (۱۶ - مذ) لڑاکھ روپے کا ہار - ہنایت قیمتی اور بڑھیا ہار -
 نو حاسہ - (۱۶ - مذ) ایک رسم جو محل کے لوہے میںے منائی جاتی ہے -
 نو نقد نہ تیرہ ادھار - (۱۶ - مذ) قرض کے تیرہ سے نقد لانا ہے جو سر دست مل جائے وہ بہتر ہے -
 لوناگا - (۱۵ - مذ) بانہ دوں کا ایک زیندر میں نو نیکنے جڑے ہوتے ہیں -
 لونیزے پانی پڑھنا - (۱۶ - محاورہ) لڑائی جھگڑے میں طوالت ہونا -
 لونہ بن - صف، نیا جدید تازہ - ابھی کا -
 لونا باد - (۱۶ - صف) دا، حال ہی میں لسا ہوا تازہ آباد کیا ہوا (۲) وہ زمین جس میں پہلی دفعہ بل جلا یا گیا ہو -
 لونا بادکار - (۱۶ - صف) کسی نئی آباد جگہ پر نیا نیا آباد کرنے والا -
 لونا بادی - (۱۶ - مذ) نیا آباد کیا ہوا علاقہ - کالونی -
 لونا دیات - (۱۶ - مذ) لونا بادی کی جمع بقیمومات -
 لونا آموز - (۱۶ - صف) دا، جس نے ابھی سیکھنا شروع کیا ہو (۲) نا تجربہ کار - مبتدی -
 لونا ایجاد - (۱۶ - صف) نیا ایجاد کیا ہوا - حال میں ایجاد کیا ہوا -
 لونا بادہ - (۱۶ - مذ) بہر نئی اور تازہ چیز خصوصاً میوہوں یا پودا لونا بڑوہ - (۱۶ - مذ) نیا خریدنا ہوا غلام -
 لونا لونا - (۱۶ - صف) تازہ بناؤ - نیا بنا -
 لونا بہار - (۱۶ - صف) دا، موسم بہار کا شروع (۲) موسم بہار (۳) وہ چیز جس پر نئی رونق ہو -
 لونا توڑ - (۱۶ - صف) دا، مدت، وہ زمین جو حال ہی میں قابل کاشت بنائی گئی ہو - (غلط ترکیب) -
 لونا جوان - (۱۶ - صف) جس کی جوانی کا ابھی آغاز ہوا ہو - لونا خیز لونا عمر گھوڑو -
 لونا جوانی - (۱۶ - صف) شباب - جوانی - بلوغ -
 لونا خندی - (۱۶ - صف) نئے چاند سے منسوب - نئے چاند کی پہلی جھرات -
 لونا خاستہ - (۱۶ - صف) لونا جوان تازہ آگیا ہو (۲) نا تجربہ کار -
 لونا خط - (۱۶ - صف) دا، وہ لونا جوان جس کی سسلیں بھیگ رہی ہوں - سبزہ آغاز -
 لونا خیز - (۱۶ - صف) لونا جوان (۲) تازہ آگیا ہو (۳) نا تجربہ کار -
 لونا خیزی - (۱۶ - صف) کسی چیز کا بھونٹنا یا لگانا -
 لونا دولت - (۱۶ - صف) دا، وہ شخص جسے مفلسی کے بعد دولت ملی ہو جو خاندانی طور پر دولت مند نہ ہو - اوچھا - دولت پر بھگت کرنے والا -
 لونا رس - (۱۶ - صف) دا، نیا پہنچا ہوا (۲) نیا تازہ دمیدہ (۳) لونا خیز - لونا جوان -
 لونا رونا - (۱۶ - صف) دا، سال کا پہلا دن - ایرانیوں کا قومی شہنشاہ - لونا شہ - (۱۶ - صف) دا، دو لہار (۲) لونا جوان بادشاہ -

مرزا غالب کا لقب -
 نو عمرو سہان چین - (۱۶ - مذ) تازہ کلیاں - تازے پھول -
 نو عمر - (۱۶ - مذ) خود سال - کم سن -
 نو عمری - (۱۶ - صف) کم سنی - بچپن -
 نو گرفتار - (۱۶ - صف) تازہ گرفتار - نیا پکڑا ہوا (۲) نا تربیت یافتہ (۳) نیا عاشق -
 نو مسلم - (۱۶ - صف) وہ شخص جو حال ہی میں مسلمان ہوا ہو -
 نو مشق - (۱۶ - صف) نا آموز - نا تجربہ کار - ناٹھی -
 نو بہمال - (۱۶ - صف) نیا درخت (۲) کم عمر بچہ -
 لونا وارہ - (۱۶ - صف) اجنبی - مسافر - تازہ وارہ -
 لونا دن - (۱۶ - صف) آواز - صدا (۲) کوک - چھپا (۳) سر - راگ - نغمہ (۴) موسیقی کے بارہ مقامات میں سے ایک مقام (۵) سازو سامان - گوشہ (۶) روزی - خوراک (۷) تو گری - خوش حالی -
 لونا پرداز - (۱۶ - صف) ساز - سنج - گرہ - (۱۶ - صف) مطرب گونیا لگانے والا -
 لونا تلخ ترمزی زین جو ذوق نغمہ کیلانی - (۱۶ - صف) جب لاک کا لطف کم ہوتا دیکھو تو آوازیں اور ارپید کر دے لونا - (۱۶ - صف) نیا -
 لونا - (۱۶ - صف) نیا - (۱۶ - صف) نیا -
 لونا اب - (۱۶ - صف) (ع - ۱۶ - مذ) ثابت کرنے والا - کسی شہر یا علاقے کا حاکم - سردار - صوبہ دار - ناظم - جہد منغلیہ کا ایک خطاب -
 لونا بنانا - (۱۶ - صف) لونا کا خطاب ملنا (۲) کسی علاقے کا حاکم ہوجانا مغرور ہوجانا - اپنے برابر کسی کو نہ سمجھنا -
 لونا لے ملک - (۱۶ - صف) وہ جو امیری کی شہنشاہی ماسے اور پاس کچھ نہ ہو -
 لونا زادہ - (۱۶ - صف) لونا زادی - (۱۶ - صف) مذ - مدت، لونا ب کی اولاد بیٹا اور بیٹی -
 لونا بی - (۱۶ - صف) (ع - ۱۶ - صف) لونا ہونے کی حالت - لونا پن - (۱۶ - صف) قائم مقامی - نظامت (۲) حکومت - ریاست (۳) امیری - دولت مندی (۴) فضول خرچی - عیاشی -
 لونا بلی اور ٹٹی - (۱۶ - صف) کارخانہ - (۱۶ - صف) امیری کا روبرار - رئیسانہ سازو سامان -
 لونا بلی کرنا - (۱۶ - صف) امیرانہ ٹھاٹھ سے رہنا -
 لونا ج - (۱۶ - صف) (ع - ۱۶ - صف) مضامین - ارد گرد کا علاقہ - قرب و جوار - پاس پڑوس -
 لونا حی - (۱۶ - صف) (ع - ۱۶ - صف) مضامین - پاس قرب و جوار - اس پاس قرب و جوار -
 لونا در - (۱۶ - صف) (ع - ۱۶ - صف) نادر کی جمع عجیب و غریب چیزیں -

نور - ۱ - مذ، روشنی، تہلی، اجمالاً، چمک (۲)، رونق، رُوب -
 (۳) کلام پاک کی ایک صورت کا نام، ہم، صوفیوں کی اصطلاح میں
 خدا کا ایک صفاتی نام جمع - انوار -
 نور آجانا - ۱۶ - محاورہ، روشنی پیدا ہو جانا (۲)، رونق آجانا -
 نور آئیں - ۱۷ - صفت، پر نور، نور سے بھرا، ہوا - روشن -
 نور آڑ جانا - ۱۶ - محاورہ، رونق جاتی رہنا۔ بے رونق ہونا
 نور افزا - ۱۷ - صفت، روشنی بڑھانے والا -
 نور افشال (باش) - ۱۷ - صفت، روشنی چھڑکنے والا منور
 کرنے والا -
 نور العین - نور عین - ۱۷ - صفت، آنکھوں کی روشنی -
 (۲) بیٹا -
 نور الہی - ۱۷ - صفت، اللہ کا نور -
 نورانی - ۱۷ - صفت، منور -
 نورانی چہرہ - ۱۷ - صفت، وہ چہرہ جس پر نور برستا ہو کسی
 بزرگ کے لیے استعمال ہوتا ہے -
 نور ایمان - ۱۷ - صفت، وہ نور جو ایمان دار شخص کے دل میں
 اور چہرے پر ہوتا ہے -
 نور یاف - ۱۷ - صفت، جو لاپا -
 نور بانی - ۱۷ - صفت، جو اپنے کام کا پیشہ -
 نور بخش - ۱۷ - صفت، روشنی دینے والا -
 نور برستا - ۱۷ - محاورہ، (۱) روشنی کی فراوانی ہونا - (۲) رونق
 ہونا - چمکنا -
 نور چمکنا - ۱۷ - محاورہ، چمکنا - روشنی دینا -
 نور چشم - ۱۷ - آنکھوں کا نور، اولاد، بیٹا -
 نور چمکنا - ۱۷ - محاورہ، روشنی چمکنا - رونق بڑھانا -
 نور چھا جانا - ۱۷ - محاورہ، چاروں طرف روشنی ہونا - ہر طرف
 روشنی ہونا -
 نور چمکنا - ۱۷ - محاورہ، نور چمکنا -
 نور چھٹنا - ۱۷ - محاورہ، پردے یا درختوں کے پتوں یا بادلوں
 سے روشنی کا تھوڑا تھوڑا کر کے باہر آنا - سوراخ دار شے سے
 روشنی نکلنا -
 نور دیدہ، بصیر چشم - نظر (۱۷) - صفت، آنکھوں کا نور (۲)
 (مجازاً) اولاد، بیٹا -
 نور ظہور کا وقت - ۱۷ - مذ، علی الصبح صبح صادق کا وقت -
 نور علی نور - ۱۷ - صفت، نور، نور، نور، ایک سے ایک بڑھ کر
 (۳) بہتر - علی (۲) سبحان اللہ - صل علی (۵) یہ محاورہ طنزاً
 بھی استعمال ہوتا ہے -
 نور کا - ۱۷ - صفت، جگہ دار، حسین (۲)، بہت عمدہ - پاکیزہ -
 نور کا ستلا - ۱۷ - صفت، حسین، خوبصورت - نورانی صورت -
 نور کا ترکا - ۱۷ - مذ، صبح صادق، پوچھنے کا سماں -

نور کا دریا - ۱۷ - صفت، سراپا نور، مجسم نور -
 نور کا گلا (نورانی کلام) - ۱۷ - مذ، نہایت سلی اور مٹلی آواز -
 نور کا مینہ - ۱۷ - مذ، روشنی کی کثرت -
 نور کی آواز - ۱۷ - صفت، شیریں آواز -
 نور کی باتیں - ۱۷ - صفت، پیشی پیشی باتیں - شیریں گفتگو -
 نور کی بزم - ۱۷ - صفت، حسینوں کا مجمع
 نور کی تائیں - ۱۷ - صفت، مٹلی تائیں -
 نور کی چادر - ۱۷ - صفت، روشنی کی کثرت - روشنی کا اکٹھا ایک
 جگہ بڑھنا -
 نور کے بول - ۱۷ - مذ، دل بھانے والی باتیں -
 نور کے سانچے میں ڈھلنا - ۱۷ - محاورہ، خوبصورت اور حسین
 ہونا سرتاپا نور ہونا -
 نور چلی - ۱۷ - صفت، ایک قسم کا کھانا -
 نور نظر - آنکھوں کی روشنی، دکھاتا، بیٹا -
 نور - نورہ - (نور، نور) - ۱۷ - مذ، بال ڈرانے کا سفوف - جو چمے اور
 بڑھانے کا مرکب ہوتا ہے -
 نور الکن - ۱۷ - محاورہ، بال ڈرانے کا پاؤ ڈرگنا (۲) کسی کے قریب جیتے
 سے نقصان ہونا -
 نورانا - (نور، رانا، نور) - ۱۷ - صفت، روشن کرنا -
 نورانی - (نور، رانی، نور) - ۱۷ - صفت، روشن - منور - چمکیلا
 درختاں -
 نورت - (نور، نور، نور) - ۱۷ - صفت، ہمارا موسم -
 نور - دن - نور - ۱۷ - صفت، ہلے کرنے والا - لپٹنے والا مرکبات
 میں استعمال ہوتا ہے - جیسے صحرانورد -
 نور دی - ۱۷ - صفت، سفر کرنا - بطور لائق استعمال ہوتا ہے جیسے
 صحرانوردی -
 نور دی - (نور، دی، نور) - ۱۷ - صفت، نور سے منسوب ہونا (۲) نور کا
 بنا ہوا (۳) چمکنا - نورانی -
 نورنا - (نور، نور، نور) - ۱۷ - صفت، چمکنا -
 نور ٹھانا - (نور، ٹھانا، نور) - ۱۷ - صفت، چمکنا -
 نور وہ - (نور، وہ، نور) - ۱۷ - صفت، انیس -
 نور ساگر - (نور، ساگر، نور) - ۱۷ - مذ، نور ساگر -
 نور سراز - ۱۷ - صفت، دھوکے باز -
 نورش - ۱۷ - مذ، خوش گواری چیز (۲) آب حیات - امرت (۳) شہد
 (۴) تریاق (۵) صفت، پینے والا - مرکبات کے آخر میں بطور لائق
 بھی استعمال ہوتا ہے جیسے بادہ نوش -
 نورش بے پیش حاصل نمی شود - ۱۷ - مثل، شہد ڈنگ کھائے
 بغیر حاصل نہیں ہوتا - کوئی بھی چیز بے محنت نہیں ملتی -
 نورش جان کرنا - ۱۷ - محاورہ، کھانا کھانا -

نوٹش جان ہونا۔ ۱۶۔ محاورہ، خوش گواری سے کھلایا یا جانا۔
 نوٹش ڈارو۔ ۱۶۔ صفت، تریاق، ۱۷۔ شراب، ۱۸۔ ایک قسم کی مچھلی جو خوش ذائقہ اور فرحت بخش ہوتی ہے۔
 نوٹشابہ۔ ۱۶۔ مذکر، آب حیات، امرت، جل۔
 نوٹشادر۔ ۱۶۔ شادو، ۱۷۔ مذکر، ایک مرکب جو ایمنیم اور کلورین سے بنتا ہے۔
 نوٹشادر بریکانی۔ اعلیٰ درجے کا نوٹشادر جس کی قلمیں ہوں۔
 نوٹشا نوٹش۔ ۱۶۔ صفت، پے درپے پینا۔
 نوٹشت۔ ۱۶۔ دشت، ۱۷۔ مذکر، تحریر۔ کھائی کتابت۔
 نوٹشت و خواہد۔ ۱۶۔ صفت، لکھنا، پڑھنا۔
 نوٹشتہ۔ ۱۶۔ شو، ۱۷۔ صفت، لکھا، ۱۸۔ مذکر، تحریر سند و ستادیز، ۱۹۔ تقدیر قیمت۔
 نوٹشتہ تقدیر۔ ۱۶۔ صفت، قسمت کا لکھا، نصیباً۔
 نوٹشتہ دینا۔ ۱۶۔ محاورہ، تحریر سند دینا۔
 نوٹشتہ لینا۔ ۱۶۔ محاورہ، تحریر سند لکھنا۔
 نوٹشتہ ہو جانا۔ ۱۶۔ محاورہ، اقرار نامہ لکھا جانا۔
 نوٹشو۔ ۱۶۔ شو، ۱۷۔ صفت، نوٹشہ، ڈولہا۔
 نوٹشی۔ ۱۶۔ صفت، پینا، شراب پینا، مرکبات کے آخر میں بطور لائقہ استعمال ہوتا ہے۔ جیسے بادہ نوشی۔
 نوٹشین۔ ۱۶۔ شو، ۱۷۔ صفت، شیری میٹھا، خوش ذائقہ۔
 نوٹشاس برین۔ ۱۶۔ صفت، طاس، برین، ۱۷۔ صفت، ہر شرب۔
 نوٹشوع۔ ۱۶۔ صفت، قسم جنس، ۱۷۔ صفت، طور، ڈھنگ، ۱۸۔ صفت، ذات، ۱۹۔ شکل، صورت، جمیع انواع۔
 نوٹش انسان۔ ۱۶۔ صفت، یعنی آدم۔
 نوٹش ڈوگر ڈوگر۔ ۱۶۔ صفت، دوسری طرح کا، مختلف قسم کا۔
 بدللا ہوا، ۱۷۔ صفت، خراب۔
 نوٹشیت۔ ۱۶۔ صفت، ۱۷۔ صفت، ۱۸۔ صفت، خصوصیت۔
 نوٹش۔ ۱۶۔ صفت، کسی چیز کا لاریک، سرا، آئی، ۱۷۔ صفت، متعارف، ۱۸۔ صفت، آن، او۔ انداز، ۱۹۔ صفت، بانگین، ۲۰۔ صفت، واعدائی، ۲۱۔ صفت، ڈینگ، ۲۲۔ صفت، عزت، ۲۳۔ صفت، چھڑ چھاڑ، ۲۴۔ صفت، زنی، ۲۵۔ صفت، کوئی نہاویہ۔
 نوٹش اڑنا۔ ۱۶۔ محاورہ، آئی کا چھینا۔
 نوٹش بیان۔ ۱۶۔ صفت، جوئی کی خوبصورتی اور بناوٹ وغیرہ۔
 نوٹش ہلک۔ ۱۶۔ صفت، ۱۷۔ صفت، اکھ ناک کی موزونیت، خوبصورتی، ۱۸۔ صفت، کتا جب کے حروف کی موزونیت۔
 نوٹش ہلک ہونا۔ ۱۶۔ محاورہ، دیکھنے میں موزون، خوبصورت اور دیدہ زیب ہونا۔
 نوٹش ہلک سے ڈر سمت۔ ۱۶۔ صفت، ۱۷۔ صفت، ہر طرح سے عمدہ بنا، موزون۔
 نوٹش جھوک۔ ۱۶۔ صفت، لمن طعن کی باتیں تکرار۔

نوٹش ڈم بھگنا۔ ۱۶۔ محاورہ، بے تماشاً بھگانا۔
 نوٹش لکھ لینا۔ ۱۶۔ محاورہ، آبرو چھلینا، عزت لکھ لینا۔
 نوٹش رہ جانا۔ ۱۶۔ محاورہ، آبرو بیخ جاہا، عزت یا بات رہ جانا۔
 نوٹش زبان۔ ۱۶۔ صفت، ۱۷۔ صفت، زبان کی نوٹش، ۱۸۔ صفت، زبان، ۱۹۔ صفت، ازبر۔
 نوٹش زبان ہونا۔ ۱۶۔ محاورہ، حفظ ہونا۔ ازبر ہونا۔
 نوٹش کلمہ نر آنا۔ ۱۶۔ محاورہ، لکھا جانا، تحریر ہونا۔
 نوٹش کا۔ ۱۶۔ صفت، کان بان کا۔ بانگین کا۔
 نوٹش کی باتیں۔ ۱۶۔ صفت، طعن، وطنزنی باتیں۔
 نوٹش کی لینا۔ ۱۶۔ محاورہ، ڈینگ مارنا، قابل فخر یا بڑھ کر کام کرنا۔
 نوٹش نشتر ہونا۔ ۱۶۔ محاورہ، ۱۷۔ صفت، نشتر کی نوٹش کی طرح چھینا سخت تکلیف دہ ہونا۔
 نوٹش کا۔ ۱۶۔ صفت، کشتی، ۱۷۔ صفت، چھڑ چھاڑ۔
 نوٹش کا دوڑ۔ ۱۶۔ صفت، کشتیوں کی دوڑ۔
 نوٹش کا جھوکی۔ ۱۶۔ صفت، ۱۷۔ صفت، چھڑ چھاڑ، ۱۸۔ صفت، وطنزنی۔
 شوخی و شرارت۔
 نوٹش کر۔ ۱۶۔ صفت، لازم خدمت گزار خادم۔
 نوٹش چاکر۔ ۱۶۔ صفت، ملازمان۔
 نوٹش کے آگے چاکر۔ چاکر کے آگے کو کر کے آگے پیش کار۔ حمار یا حماروں سے کار۔ ۱۷۔ صفت، اس موقع پر بولتے ہیں۔ جب کسی امر کی بد انتظامی دود کرنے کے لیے نوٹش رکھتے ہیں۔ لیکن بد انتظامی کی اصلاح ہونے کے بعد نوٹش پہلے سے بھی زیادہ خرابی اور ابتری پھیل جاتی ہے۔
 نوٹش ہونا۔ ۱۶۔ صفت، ملازم، ۱۷۔ صفت، ملازمت اختیار کرنا۔
 نوٹش کرانی۔ ۱۶۔ صفت، ۱۷۔ صفت، نوٹش کی تائید، ملازم، خادم۔
 نوٹش کر۔ ۱۶۔ صفت، ۱۷۔ صفت، ملازمت، ۱۸۔ صفت، خدمت گزار۔
 نوٹش کا کام یا پیشہ دم، تنخواہ، مشاہیرہ، وہ کام جس پر کوئی آدمی تعینات کیا جاتا ہے۔
 نوٹش کی جڑ ہے۔ ۱۶۔ صفت، نوٹش کی جڑ سے نہیں کرنا چاہیے۔
 نوٹش کی جڑی کزور ہوتی ہے۔
 نوٹش کی بانٹنا۔ ۱۶۔ محاورہ، خدمت مقرر کرنا۔ کام پر تعینات کرنا۔
 نوٹش تقسیم کرنا۔
 نوٹش کی بجانا۔ ۱۶۔ محاورہ، خدمت انجام دینا۔
 نوٹش برطرف، روزی بہر طرف۔ ۱۶۔ صفت، ملازمت چھوٹ جانے پر انسان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے۔
 نوٹش کی پیشہ۔ ۱۶۔ صفت، وہ جس کا پیشہ ملازمت ہو۔ نوٹش کی کسی کے کمانے والا۔
 نوٹش چھوٹ جانا۔ ۱۶۔ محاورہ، ملازمت سے برطرف ہونا۔

نہ رہنا۔

نہ بننا۔ (۱۶- محاورہ) نہ ہو سکتا۔ ممکن نہ ہونا (۲) سلوک نہ ہونا۔

نہ بولی نہ بولی، بولی تو پتھر کھینچ مارا۔ (۱۶- مثل) مغرور اور بد مزاج عورت کے متعلق کہا جاتا ہے۔

نہ بننا۔ ممکن نہ ہونا۔ نہ ہو سکتا (۲) سلوک نہ کرنا۔

نہ پانا۔ (۱۶- محاورہ) کسی کی ہمسری نہ کر سکتا۔

نہ پانی کے اوپر نہ پانی کے نیچے۔ (۱۶- مثل) اُلٹی کھوپڑی دلے کے متعلق کہا جاتا ہے۔

نہ پائے رفیق نہ جائے ماندن۔ نہ جائے ماندن

نہ پائے رفیق۔ (۱۶- مثل) مجبوری ظاہر کرنے کے لیے کہ کسی طرح بات نہیں بنتی۔

نہ پوچھنا۔ (۱۶- محاورہ) پرواہ نہ کرنا۔ بے قدری کرنا۔

نہ پوچھو۔ (۱۶- روزمرہ) بیان سے باہر ہے۔ قابل بیان نہیں (۲) کیا کچھ (مدح و ذم دونوں کے واسطے کہا جاتا ہے۔

نہ جانے۔ (۱۶- تابع فعل) ۱۱، معلوم نہیں۔ مجھے علم نہیں (۲) شاید۔

نہ جھنڈی نہ ڈھول بجاتا۔ (۱۶- مثل) نالائق بیٹے کے متعلق کہتے ہیں۔

نہ جینے کی خوشی نہ مرنے کا غم۔ (۱۶- مثل) کوئی اُتنگ باقی نہیں۔

نہ چڑھے گا نہ گرنے کا۔ (۱۶- مثل) وہ کام کیوں کیا جائے جس میں نقصان کا خطرہ ہو۔

نہ خدا کا دیدار نہ خدا کی شفاعت۔ (۱۶- مثل) کنایتاً اور بنداری کا تذکرہ نہ ہونا، بددعا بھی ہے۔

نہ روئے مرداں نہ روئے زناں۔ (۱۶- مثل) جس سے کسی کام کی توقع نہ ہو۔ کام چوڑ۔

نہ دیکھ سکتا۔ (۱۶- محاورہ) کسی کے فروغ کو دیکھ کر گڑھنا۔ حسد کرنا۔

نہ رہا جانا۔ (۱۶- محاورہ) ۱۱، چین نہ پڑنا (۲) صبر نہ ہونا۔ برداشت نہ ہونا۔

نہ رہے پائش نہ بچے ہانسری۔ (۱۶- مثل) جھگڑنے والی چیز ہی نہ ہو تو جھگڑا کیسا۔

نہ سادوں سوکھے نہ بھادوں ہرے۔ (۱۶- مثل) ہمیشہ ایک جیسے متوکل۔

نہ سہی۔ (۱۶- تابع فعل) کوئی مضائقہ نہیں۔

نہ صبر و رول عاشق مذاق و درغبال۔ (۱۶- معقول) عاشق کے دل میں صبر نہیں ہوتا۔ جس طرح پھلنی میں پانی نہیں ٹھہرتا۔

نہ کارے نہ مٹھے۔ (۱۶- مثل) بیکار نہ ہونا۔

نہ کتا دیکھے نہ بھونکے۔ (۱۶- مثل) دشمن کے سامنے نہ جائیں گے۔ نہ ایسے سے کچھ نہیں گئے۔

نہ گائے کے گھن نہ گسائیں کے بھانڈ۔ (۱۶- مثل) نہ کچھ پاس ہے نہ اس کے رکنے کا سامان۔

نہ گندی چلی جائے نہ گنا کٹے۔ (۱۶- مثل) نہ بڑوں کی صحبت میں بیچھے نہ نہ نامی ہو۔

نہ گوہ میں اینٹ ڈالو نہ پھینکیں پڑیں۔ (۱۶- مثل) نہ بڑوں کو نمٹے نکاڑے نہ کالیاں سنو۔

نہ لینا نہ دینا۔ (۱۶- محاورہ) کچھ حاصل نہ وصول۔

نہ مارے مرے نہ کاٹے کٹے۔ (۱۶- مثل) وہ مصیبت جو کسی صورت میں حل نہ ہو۔

نہ معلوم۔ (۱۶- تابع فعل) خدا جانے۔

نہ منہ سے بولے نہ سر سے کھیلے۔ (۱۶- مثل) بالکل چُپ اور خاموش آدمی کی نسبت کہتے ہیں۔

نہ منہ میں دانٹ نہ بیٹ میں آنت۔ (۱۶- مثل) بہت بوڑھا۔

نہ میں کہوں تیری نہ تو کہہ میری۔ (۱۶- مثل) نہ دوسروں پر الزام دھرو۔

نہ نام لہو نہ پانی دیوا۔ (۱۶- مثل) وہ شخص جس کا دنیا میں کوئی نہ ہو۔ اکیلی جان۔

نہ نکلے ہمتی نہ اگلے۔ (۱۶- مثل) ہر طرح مصیبت ہے۔

نہ نو من تیل ہو گا نہ رادھا ٹاٹا جسے گی۔ (۱۶- مثل) نہ اتنا سامان ہو سکے گا نہ یہ کام ہو سکے گا۔ سخت شرطوں کی وجہ سے کام نہ ہو سکتا۔

نہ بھر بھر نہ کھڑ کھڑ۔ (۱۶- معقول) کوئی جھگڑا کھینچا نہیں۔

نہ ہلدی لکے نہ پھنکے تری رنگ پو کھا آئے۔ (۱۶- مثل) کچھ خرچ نہ کرنا پڑے اور فائدہ خوب ہو۔

نہ ہو نہ ہو۔ شہ اور احتمال ظاہر کرنے کے لیے بولتے ہیں (۲) نہیں یا نہیں ہے کی جگہ بھی بولا جاتا ہے۔

نہ ہوا پر نہ ہوا۔ (۱۶- مثل) کسی طرح نہ ہوا۔ برگز نہ ہوا۔

نہ بے باق۔ (۱۶- مذ) ۱۱، نو کا عدد۔

نہ باقم۔ (۱۶- مذ) ۱۱، نو کا عدد۔

نہ باقم۔ (۱۶- مذ) ۱۱، نو کا عدد۔

نہ باقم۔ (۱۶- مذ) ۱۱، نو کا عدد۔

نہ باقم۔ (۱۶- مذ) ۱۱، نو کا عدد۔

نہ باقم۔ (۱۶- مذ) ۱۱، نو کا عدد۔

نہ باقم۔ (۱۶- مذ) ۱۱، نو کا عدد۔

نہار گھنٹہ - ۱۶۔ مذ ۲، وہ شخص جس نے صبح سے کچھ نہ کھلایا ہو۔ ناشتہ کے بغیر۔

نہار گھنٹہ نام نہ لینا - ۱۶۔ محاورہ ہے کھائے نام نہ لینا۔ منحوس آدمی کی طرف اشارہ۔

نہاری - دن - ۴۔ رسی، ۱۶۔ ۱۔ مٹ، نہار۔ تھوڑا سا کھانا جو صبح کے وقت کھاتے ہیں۔ ناشتہ ۲، ایک قسم کا شور یا دار سالن۔ ۳، کھوٹے کو صبح کے وقت کھلانے کا مالیدہ۔

نہاری کھانا - ۱۶۔ محاورہ ہے صبح کا ناشتہ کرنا۔

نہال - دن - ہال، ۱۶۔ ۱۔ مذ ۱، تازہ لگایا ہوا لودا ۲، توشک۔ بستہ۔ گدا ۳، شکار۔ صید ۴، مالا مال، خوش حال۔ کامیاب۔ بے فکر۔ خوش و خرم۔

نہال کر دینا - ۱۶۔ محاورہ، مالا مال کر دینا ۲، خوش کر دینا ۲، مراد کو پہنچانا کامیاب ہونا ۳، میراب کر دینا۔ سرسبز کرنا۔

نہال ہو جانا - ۱۶۔ محاورہ، مالدار ہو جانا ۲، خوش و خرم ہو جانا۔ کامیاب ہونا۔ مراد پانا۔

نہالچہ - دن - ہال، ۱۶۔ ۱۔ مذ ۱، کچھ بھرتی توشک۔

نہالی - دن - ہالی، ۱۶۔ ۱۔ مٹ ۱، توشک ۲، خالیچہ ۳، لحاف۔ رضائی۔

نہال دن - ہال، ۱۶۔ ۱۔ صفت، چھپا ہوا۔ پوشیدہ۔

نہال خانہ - دن - ۱۔ مذ ۱، پوشیدہ گھر۔ تہ خانہ چھپا ہوا۔

نہال رکھنا - ۱۶۔ محاورہ، پوشیدہ رکھنا۔ چھپائے رکھنا۔

نہالی - دن - ہالی، ۱۶۔ ۱۔ صفت، منسوب بہ نہال۔ مخفی۔ پوشیدہ۔

نہالان - دن - ہال، ۱۶۔ ۱۔ مذ ۱، غسل۔ استنان۔

نہالانا - دن - ہال، ۱۶۔ ۱۔ مٹ ۱، جسم کو پانی سے دھونا۔ غسل کرنا۔ استنان کرنا۔

نہالی - دن - ہالی، ۱۶۔ ۱۔ مٹ ۱، نہانے کی ضرورت۔ احتلام۔

نہالی دھونی پھسل پڑی - ۱۶۔ ۱۔ شل، تیار ہو کر رہ جانے۔ بیکتے ہیں۔

نہالی ہونا - ۱۶۔ محاورہ، نہانے کی حاجت ہونا۔ احتلام ہونا۔ کپڑے آنا۔

نہالی - دن - ہالی، ۱۶۔ ۱۔ مٹ ۱، وہ اذرا جس پر لوہار کہہ کر کھٹتے ہیں۔ اجرن۔ سندان۔

نہایت - دن - ہالی، ۱۶۔ ۱۔ مٹ ۱، حد۔ آہما۔ انجام۔ آخر ۲، بے انتہا۔ بہت۔ بکثرت۔

نہایت نہ رکھنا - ۱۶۔ محاورہ، انتہا نہ رکھنا۔ بچہ ہونا۔

نہتتا - نہتتا - دن - ہالی، ۱۶۔ ۱۔ مٹ ۱، تنہا۔ ۲، صفت، جس کے پاس ہتھیار نہ ہو۔ حالی یا تنہا۔ غیر مسلح۔

نہتتا - دن - ہالی، ۱۶۔ ۱۔ مذ ۱، ناخن کا نشان۔ کھانے سے جوشن پڑ جاتا ہے۔

نہٹی - دن - ہالی، ۱۶۔ ۱۔ مٹ ۱، ناخن گہرے ناخن کاٹنے کا آلہ۔

نہج - ۱۔ مذ ۱، روشن اور کشادہ راستہ - ۲، طرد۔ طریقہ۔ ڈھنگ۔ قاعدہ۔

نہر - ۱۔ مٹ، دریا کی شاخ - آب جو پانی کی بڑی نالی جو آب پاشی کے لیے کھودی جلتے و جمع ہوتی ہے۔

نہر بندی - دن - ۱۔ مٹ، نہر کا پانی بند کر دینا۔ لوگوں کو نہر سے پانی نہ لینے دینا۔

نہر کوڑنا - ۱۶۔ محاورہ، نہر کا کنارہ توڑ کر پانی ضائع کر دینا۔

نہر کا گھٹا - ۱۶۔ محاورہ، دریا یا جھیل سے شاخ کاٹ کر نکالنا۔

نہرنا - دن - نہرنا، ۱۶۔ ۱۔ مذ ۱، ناخن گہرے ناخن تراشنے کا آلہ۔

نہرنی - دن - نہر، ۱۶۔ ۱۔ مٹ، چھوٹا ناخن گہرے ناخن تراشنے کا چھوٹا سا آلہ۔

نہر و - دن - نہر، ۱۶۔ ۱۔ مذ ۱، رشتہ کی بیماری۔ وہ گول تاگ سا جو بدن میں سے نکلتا ہے۔

نہری - دن - نہری، ۱۶۔ ۱۔ صفت، نہر سے مشوب ۲، وہ زمین جو نہر کے پانی سے میراب کی جائے۔

نہرنا - دن - نہرنا، ۱۶۔ ۱۔ مٹ، چھکن۔ خمیدہ ہونا۔ تعظیم بجالانا۔ کورن کی حالت میں ہونا۔

نہرنت - دن - نہرنت، ۱۶۔ ۱۔ مٹ ۱، اٹھنا۔ رخصت ہونا۔ کوچ۔ روانگی۔ رخصت۔

نہرنت کرنا - ۱۶۔ مٹ ۱، سفر کرنا۔ روانہ ہونا۔ کوچ کرنا۔

نہرنتگی - دن - نہرنتگی، ۱۶۔ ۱۔ مٹ ۱، پوشیدگی چھپانا۔

نہرنتہ - دن - نہرنتہ، ۱۶۔ ۱۔ صفت، پوشیدہ۔ خفیہ۔ چھپا ہوا۔ مخفی۔

نہلا - دن - لا، ۱۶۔ ۱۔ مذ ۱، تاش یا گھوڑ کا وہ پتہ جس پر نو بندیاں ہوتی ہیں۔

نہلانا - دن - لا، ۱۶۔ ۱۔ مٹ ۱، غسل دینا ۲، ٹھوڑا دینا ۳، مردے کو غسل دینا۔

نہلانا دھلانا - ۱۶۔ مٹ ۱، اچھی طرح غسل کر دینا۔

نہلانی - دن - لا، ۱۶۔ ۱۔ مٹ ۱، غسل کرانی۔ نہلانے کی اجرت۔

نہلوانا - دن - ہال، ۱۶۔ ۱۔ مٹ ۱، نہلانا۔

نہم - دن - نہم، ۱۶۔ ۱۔ صفت، نواں۔ نویں چیز۔ نواں درجہ۔

نہن - دن - نہن، ۱۶۔ ۱۔ مذ ۱، بچپن۔

نہنگ - دن - نہنگ، ۱۶۔ ۱۔ مذ ۱، مگر بچہ کھڑا ہال۔

نہنگ اجل - دن - نہنگ، ۱۶۔ ۱۔ مٹ ۱، کافر شتہ۔ ملک الموت۔

نہنگ اجل کا شکار ہونا - ۱۶۔ محاورہ، مر جانا۔ موت کی تندر پڑ جانا۔

نہنگ - دن - نہنگ، ۱۶۔ ۱۔ مذ ۱، سکھیل کا ایک فرقہ جو بیت اوجی گڑھی بانڈھتا ہے۔ اور زرد کپڑے پہنتا ہے (۲) نہنگ - برہنہ۔ آزاد لاروہ (۳) بے حیا۔ بے شرم۔

نہنگ لاؤلا - ناز پروردہ۔ بھولا بھالا۔ بھلا بھلا۔ لاروہ۔ بالکل اجرت۔

نہنگ ہے - ۱۶۔ پول چال امن تہا ہے۔ کچھ نہیں رکھتا۔

ن-ی

نی (۱-۵۶-۱-۵۶) مش، یہ کلمہ اسامہ ہندی کے آخر میں ملتی ہو کر تائید اسم کا فائدہ دیتا ہے۔ جیسے اوشنی۔ ہوشنی۔

نی (۱-۵۶-۱-۵۶) مش، یہ کلمہ اسامہ ہندی کے آخر میں ملتی ہو کر تائید اسم کا فائدہ دیتا ہے۔ جیسے اوشنی۔ ہوشنی۔

نی (۱-۵۶-۱-۵۶) مش، یہ کلمہ اسامہ ہندی کے آخر میں ملتی ہو کر تائید اسم کا فائدہ دیتا ہے۔ جیسے اوشنی۔ ہوشنی۔

نیستان (۱-۵۶-۱-۵۶) مش، یہ کلمہ اسامہ ہندی کے آخر میں ملتی ہو کر تائید اسم کا فائدہ دیتا ہے۔ جیسے اوشنی۔ ہوشنی۔

نیستان (۱-۵۶-۱-۵۶) مش، یہ کلمہ اسامہ ہندی کے آخر میں ملتی ہو کر تائید اسم کا فائدہ دیتا ہے۔ جیسے اوشنی۔ ہوشنی۔

نیستان (۱-۵۶-۱-۵۶) مش، یہ کلمہ اسامہ ہندی کے آخر میں ملتی ہو کر تائید اسم کا فائدہ دیتا ہے۔ جیسے اوشنی۔ ہوشنی۔

نیستان (۱-۵۶-۱-۵۶) مش، یہ کلمہ اسامہ ہندی کے آخر میں ملتی ہو کر تائید اسم کا فائدہ دیتا ہے۔ جیسے اوشنی۔ ہوشنی۔

نیستان (۱-۵۶-۱-۵۶) مش، یہ کلمہ اسامہ ہندی کے آخر میں ملتی ہو کر تائید اسم کا فائدہ دیتا ہے۔ جیسے اوشنی۔ ہوشنی۔

نیستان (۱-۵۶-۱-۵۶) مش، یہ کلمہ اسامہ ہندی کے آخر میں ملتی ہو کر تائید اسم کا فائدہ دیتا ہے۔ جیسے اوشنی۔ ہوشنی۔

نیستان (۱-۵۶-۱-۵۶) مش، یہ کلمہ اسامہ ہندی کے آخر میں ملتی ہو کر تائید اسم کا فائدہ دیتا ہے۔ جیسے اوشنی۔ ہوشنی۔

نیستان (۱-۵۶-۱-۵۶) مش، یہ کلمہ اسامہ ہندی کے آخر میں ملتی ہو کر تائید اسم کا فائدہ دیتا ہے۔ جیسے اوشنی۔ ہوشنی۔

نیستان (۱-۵۶-۱-۵۶) مش، یہ کلمہ اسامہ ہندی کے آخر میں ملتی ہو کر تائید اسم کا فائدہ دیتا ہے۔ جیسے اوشنی۔ ہوشنی۔

نیستان (۱-۵۶-۱-۵۶) مش، یہ کلمہ اسامہ ہندی کے آخر میں ملتی ہو کر تائید اسم کا فائدہ دیتا ہے۔ جیسے اوشنی۔ ہوشنی۔

نیستان (۱-۵۶-۱-۵۶) مش، یہ کلمہ اسامہ ہندی کے آخر میں ملتی ہو کر تائید اسم کا فائدہ دیتا ہے۔ جیسے اوشنی۔ ہوشنی۔

نیستان (۱-۵۶-۱-۵۶) مش، یہ کلمہ اسامہ ہندی کے آخر میں ملتی ہو کر تائید اسم کا فائدہ دیتا ہے۔ جیسے اوشنی۔ ہوشنی۔

نیستان (۱-۵۶-۱-۵۶) مش، یہ کلمہ اسامہ ہندی کے آخر میں ملتی ہو کر تائید اسم کا فائدہ دیتا ہے۔ جیسے اوشنی۔ ہوشنی۔

نیستان (۱-۵۶-۱-۵۶) مش، یہ کلمہ اسامہ ہندی کے آخر میں ملتی ہو کر تائید اسم کا فائدہ دیتا ہے۔ جیسے اوشنی۔ ہوشنی۔

نیستان (۱-۵۶-۱-۵۶) مش، یہ کلمہ اسامہ ہندی کے آخر میں ملتی ہو کر تائید اسم کا فائدہ دیتا ہے۔ جیسے اوشنی۔ ہوشنی۔

نیستان (۱-۵۶-۱-۵۶) مش، یہ کلمہ اسامہ ہندی کے آخر میں ملتی ہو کر تائید اسم کا فائدہ دیتا ہے۔ جیسے اوشنی۔ ہوشنی۔

نیستان (۱-۵۶-۱-۵۶) مش، یہ کلمہ اسامہ ہندی کے آخر میں ملتی ہو کر تائید اسم کا فائدہ دیتا ہے۔ جیسے اوشنی۔ ہوشنی۔

نیستان (۱-۵۶-۱-۵۶) مش، یہ کلمہ اسامہ ہندی کے آخر میں ملتی ہو کر تائید اسم کا فائدہ دیتا ہے۔ جیسے اوشنی۔ ہوشنی۔

نیستان (۱-۵۶-۱-۵۶) مش، یہ کلمہ اسامہ ہندی کے آخر میں ملتی ہو کر تائید اسم کا فائدہ دیتا ہے۔ جیسے اوشنی۔ ہوشنی۔

نیستان (۱-۵۶-۱-۵۶) مش، یہ کلمہ اسامہ ہندی کے آخر میں ملتی ہو کر تائید اسم کا فائدہ دیتا ہے۔ جیسے اوشنی۔ ہوشنی۔

نیستان (۱-۵۶-۱-۵۶) مش، یہ کلمہ اسامہ ہندی کے آخر میں ملتی ہو کر تائید اسم کا فائدہ دیتا ہے۔ جیسے اوشنی۔ ہوشنی۔

نیستان (۱-۵۶-۱-۵۶) مش، یہ کلمہ اسامہ ہندی کے آخر میں ملتی ہو کر تائید اسم کا فائدہ دیتا ہے۔ جیسے اوشنی۔ ہوشنی۔

نیستان (۱-۵۶-۱-۵۶) مش، یہ کلمہ اسامہ ہندی کے آخر میں ملتی ہو کر تائید اسم کا فائدہ دیتا ہے۔ جیسے اوشنی۔ ہوشنی۔

نیستان (۱-۵۶-۱-۵۶) مش، یہ کلمہ اسامہ ہندی کے آخر میں ملتی ہو کر تائید اسم کا فائدہ دیتا ہے۔ جیسے اوشنی۔ ہوشنی۔

نیستان (۱-۵۶-۱-۵۶) مش، یہ کلمہ اسامہ ہندی کے آخر میں ملتی ہو کر تائید اسم کا فائدہ دیتا ہے۔ جیسے اوشنی۔ ہوشنی۔

نیستان (۱-۵۶-۱-۵۶) مش، یہ کلمہ اسامہ ہندی کے آخر میں ملتی ہو کر تائید اسم کا فائدہ دیتا ہے۔ جیسے اوشنی۔ ہوشنی۔

نیاراگ لانا۔ ۱۷۔ مجاورہ (تازہ جھنگرا کھڑا کرنا۔ تیا فتنہ اٹھانا ۲۱) کوئی انوکھی اور عجیب بات لگانا۔

نیارنگ دکھانا۔ ۱۷۔ مجاورہ (عجیب عالم دکھانا۔ غیر معمولی طرز عمل دکھانا۔

نیارنگ لانا۔ ۱۷۔ مجاورہ (کوئی انوکھی اور عجیب بات کا مجبور پذیر ہونا۔

نیی بات ہونا ۲۱) تیا فساد پیدا کرنا۔

نیاروب۔ ۱۷۔ مذ، نئی شکل۔ تیا سمیں۔

نیاشکوڑ چھوڑنا۔ ۱۷۔ مجاورہ (فساد پیدا کرنا۔

نیاشکوڑ کھلنا۔ ۱۷۔ مجاورہ (عجیب غریب امر کا ظاہر ہونا۔

نیافتنہ اٹھانا۔ ۱۷۔ مجاورہ (تیا جھنگرا اٹھانا۔ تازہ قیامت برپا کرنا۔

نیاکام۔ ۱۷۔ مذ، ادا کھاکام۔ مجدد کام۔

نیاکرنا۔ ۱۷۔ مجاورہ (نئی سبزی۔ پھل یا غلہ کھانا۔ موسم کی چیز پہلے

پھل کھانا۔

نیاشکل کھلانا۔ ۱۷۔ مجاورہ (تازہ فتنہ اٹھانا۔ انوکھی اور عجیب خبر لانا

تیا مسلمان قصائی کی دوکان۔ ۱۷۔ مثل، جب کوئی شخص تیا مذہب

اعتقاد کرتا ہے تو ظواہر میں بڑا کٹر ہوتا ہے

نیاملا مسجد کو دوڑ دوڑ جاگے۔ ۱۷۔ مثل، جب کوئی نئی بات

سیکتا ہے تو ہر وقت اسی کا ذکر کرتا رہتا ہے۔

نیانودن۔ پھرانا سودن ۱۷۔ مثل، نئی چیز کی بھڑک چند دن ہوتی ہے۔

اور پرائی چیز مدت تک رہتی ہے ۲۱) سنے کی بجائے پڑانا قابل

اعتماد ہوتا ہے۔

نیانویلا۔ ۱۷۔ صفت، نا تجربہ کار (۲۱) (خیز۔ نو عمر (۳۱) بانکا ترچھا جوان (۲۱) انوکھا آدمی۔

نیاراج ڈھب ڈھب باج۔ ۱۷۔ مثل، نئی نئی حکومت اچھا کام کرتی ہے

نیتا ہونا۔ ۱۷۔ مجاورہ (نا واقف ہونا۔ اجنبی ہونا۔

نیایبت دن۔ یا۔ ببت ۱۷۔ صفت، قائم مقامی۔ سفارت۔ نائب ہونا۔

(۲۱) منیسی۔ ایجنسی۔

نیاز۔ دن۔ یا۔ ۱۷۔ مذ، گھاس پات۔ چوپایوں کا چارا۔ پولی۔

جری۔

نیار۔ دن۔ یا۔ ۱۷۔ صفت، (۱) جیدا گاڑ۔ (۲) لالا۔ مختلف انوکھا

(۲) منتخب۔ چھانٹا ہوا۔ انتخاب کیا ہوا۔ (۳) علاوہ۔

بجز۔ ماسوا۔

نیاری۔ دن۔ یا۔ ۱۷۔ صفت، (۱) گوشہ گیر (۲) عجیب۔ نادار۔

نیاریا۔ دن۔ یا۔ ۱۷۔ مذ، ستاروں کی دوکان کے گورنار کرٹ

سے سوتے جاندری کے ذرے نکالنے والا (۲) جہان بین کرنے

والا۔ بڑا جالگ اور ہوشیار آدمی۔

نیاز۔ دن۔ یا۔ ۱۷۔ صفت، (۱) حاجت۔ احتیاج۔ آرزو۔

تھنا (۲) میل۔ خواہش۔ اظہار محبت (۳) اگسار۔ عاجزی۔

مسکینی (۴) پریشاد۔ تبرک۔ تحفہ درویشاں (۵) نذر بیھنٹ

چراغ دار (۶) منت۔ اتھار، ملاقات، واقفیت، مدد شناسی۔

نیانخریدار۔ دن۔ صفت، تیا کاکہ۔ تازہ خریدار۔

نیاداد۔ نیاپانی۔ ۱۷۔ مذ، مسافرت کے واسطے استعمال ہوتا ہے

کر پور روزے مقام پر نئی غذا میسر آتی ہے۔

نیادھنگ۔ ۱۷۔ مذ، نیاطریقہ۔

جان بہیمان -

نیاز پیدا کرنا - (۱۶) محاورہ، راہ درسم پیدا کرنا۔
نیاز حاصل کرنا - (۱۷) محاورہ، ملاقات کرنا۔ بزرگوں کی ملاقات کرنا
(۱۸) واقفیت بہم پہنچانا۔

نیاز دلوانا - (۱۹) محاورہ، فاتحہ دلوانا۔ درود فاتحہ دلوانا۔

نیاز کرنا - (۲۰) محاورہ، نیاز دلانا۔ فاتحہ دلوانا کسی بزرگ کے نام کا
کھانا کرنا (۲۱) نذر کرنا۔ بھینٹ کرنا۔ نذر چڑھانا۔ نذر پکڑانا۔ قربان کرنا
صدر کرنا۔ خوار کرنا۔ دینا۔ خوار کرنا۔

نیاز کش - (۲۲) صف، عاجزی جس کی عادت ہو۔ اہلبار اکلدار
کا کلمہ۔

نیاز مند - (۲۳) صف، حاجت والا۔ خواہش رکھنے والا۔ محتاج (۲۴) تواضع
اور فروشی کرنے والا (۲۵) عاجزی اور اگسادی کا اظہار۔

نیاز مندی - (۲۶) - (۱) صف، حاجت (۲) آرزو (۳) اگسادی (۴) اساری (۵) مہ
اطاعت۔ فرما برداری۔

نیاز نامہ - (۲۷) صف، اگسادی اور عاجزی کی تحریر۔ خط۔

نیاز نما - (۲۸) یا زنی (۲۹) - (۱) صف، عرض کرنے والا۔ درخواست
کرنے والا (۳۰) عاشق۔ دوست۔ محبوب (۳۱) چٹانوں
کا ایک قبیلہ۔

نیازگان - (۳۲) - (۱) یا - (۲) گان (۳) - (۱) مذ، بزرگ۔ والدین۔ اجداد۔
نیام - (۳۳) - (۱) یا - (۲) دین - (۳) یا - (۴) دین - (۵) مذ، توار - (۶) مخبر وغیرہ کا میان۔

نیام سے توار لینا - (۳۴) محاورہ، خلاف سے توار نکلنا۔

نیام کرنا - (۳۵) محاورہ، توار کو خلاف میں رکھنا۔

نیانش - (۳۶) - (۱) یا - (۲) اش (۳) - (۱) صف، تعریف۔ دعا۔ آفرین (۴)
عاجزی۔ گریہ۔ وزاری۔

نیانگ - (۳۷) - (۱) یا - (۲) اک (۳) صف، منطقی۔ معقول۔

نیاف - (۳۸) - (۱) یا - (۲) ڈ (۳) - (۱) مذ، انصاف۔ عدل۔ فیصلہ۔ تصفیہ۔

نیاد چکانا - (۳۹) محاورہ، انصاف کرنا۔ فیصلہ کرنا۔ جھگڑا چکانا۔

نیاد سبھا - (۴۰) - (۱) صف، عدالت۔ کجی۔

نیاد کرنا - (۴۱) انصاف کرنا۔ جھگڑا چکانا۔ فیصلہ کرنا۔

نیائے - (۴۲) - (۱) یا - (۲) اے، (۳) س - (۱) مذ، علم منطوق۔ علم مناظرہ۔

علم دلیل (۴۳) طریقہ۔ قاعدہ۔ اصول (۴۴) انصاف۔ سچائی
قانون (۴۵) فیصلہ۔ نبوت۔

نیائے شاستر - (۴۶) - (۱) مذ، بندہوں کی ایک مقدس کتاب
کا نام۔

نیب - (۴۷) - (۱) صف، نیم ایک تلخ پتوں والا درخت۔

نیبو - (۴۸) - (۱) بو، (۲) مذ، ایک ترش پھل اور اس کے پودے
کا نام۔ نیبول۔

نیبو چوڑ - (۴۹) صف، (۱) نیبو چوڑنے والا (۲) بن بلایا بہمان۔ طفیلی
مفت خوردہ۔

نیپالی - (۵۰) - (۱) یا - (۲) زر، صف، ملک نیپال کا رہنے والا (۳) چینی
کا نام۔

کی ایک قسم (۳) لال سنگھیا۔

نیت - (۱) - (۱) مذ، اخلاق۔ نیک چلتی (۲) پیش بینی (۳) رہنمائی۔
نیت - (۲) - (۱) ع - (۱) صف، دلی ارادہ۔ دلی مشا۔ اصل مقصد
(۲) منصوبہ مراد۔ عہد (۳) خیال۔ دھیان۔

نیت باندھنا کرنا - (۱۶) محاورہ، ارادہ کرنا۔ منصوبہ باندھنا (۲) احرام
باندھنا۔ اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کرنا۔

نیت بخیر کرنا - (۱۷) محاورہ، کسی کا خیر کا دلی ارادہ کرنا۔ کوئی کام کرتے
وقت دل میں بُرا خیال نہ ہونا۔ اچھی نیت سے کوئی کام کرنا۔

نیت بد کرنا - (۱۸) محاورہ، بُرائی کا ارادہ کرنا۔

نیت بدل جانا - (۱۹) محاورہ، ارادہ بدل جانا۔ عہد سے بھر جانا۔
نیت بد ہو جانا۔

نیت بد ہونا - نیت میں فرق آنا۔ ارادہ فاسد ہونا۔

نیت بھٹکتا - (۱۱) محاورہ، نیت کا ڈانٹوں ڈول ہونا۔ طبیعت کا
قائم نہ رہنا۔ ایمان متزلزل ہو جانا۔

نیت بھر جانا - (۱۲) محاورہ، دل بھر جانا۔ طبیعت سیر ہو جانا۔
جی بھر جانا۔

نیت بھرنی رکھنا - (۱۳) محاورہ، نیت کو ڈانٹوں ڈول نہ کرنا۔ ایمان کو
متزلزل نہ ہونے دینا۔

نیت بندھنا - (۱۴) محاورہ، مصمم ارادہ کرنا (۲) ناکام نیت کرنا۔

نیت پلٹ جانا - (۱۵) محاورہ، نیت بھر جانا۔ ارادہ بدل جانا۔
بد نیت ہو جانا۔

نیت پھرنا - (۱۶) محاورہ، ارادہ بدل جانا۔

نیت ثابت رکھنا - (۱۷) محاورہ، اپنے ارادہ پر مستقل اور وعدہ پرقائم
رہنا (۲) ایمان قائم رکھنا۔

نیت ڈانٹوں ڈول کرنا - (۱۸) محاورہ، بد نیت ہو جانا۔

نیت سیر ہونا - (۱۹) محاورہ، نیت بھری رہنا

نیت شب بچھڑا کرنا - (۲۰) - (۱) صف، شب بچھڑا کرنا۔ ارادہ نہیں۔

نیت کرنا - (۲۱) محاورہ، دل میں ٹھنٹا۔ ارادہ کرنا۔

نیت لگی رہنا - (۲۲) محاورہ، خیال رہنا۔ دھیان رہنا۔

نیت میں خلل و فرق آنا - (۲۳) محاورہ، نیت بگڑنا۔

نیت میں فرق آنا - (۲۴) محاورہ، نیت بگڑنا۔ ناجائز طریقے سے
فائدہ اٹھانے کو جی چاہنا۔

نیٹا - (۲۵) - (۱) مذ، رہنما۔ لیڈر۔ آقا۔

نیتر - (۲۶) - (۱) صف، نہیں تو۔ ورنہ۔

نیٹ (Net) - (۲۷) - (۱) صف، صاف۔ سیدھا (۲) - (۱) مذ - (۲) مذ

نیٹ - (۲۸) - (۱) صف، صاف۔ سیدھا (۲) - (۱) مذ - (۲) مذ

نیٹ - (۲۹) - (۱) صف، صاف۔ سیدھا (۲) - (۱) مذ - (۲) مذ

نیٹ - (۳۰) - (۱) صف، صاف۔ سیدھا (۲) - (۱) مذ - (۲) مذ

نیٹ - (۳۱) - (۱) صف، صاف۔ سیدھا (۲) - (۱) مذ - (۲) مذ

نیٹ - (۳۲) - (۱) صف، صاف۔ سیدھا (۲) - (۱) مذ - (۲) مذ

نیٹ - (۳۳) - (۱) صف، صاف۔ سیدھا (۲) - (۱) مذ - (۲) مذ

نیٹ - (۳۴) - (۱) صف، صاف۔ سیدھا (۲) - (۱) مذ - (۲) مذ

نیٹ - (۳۵) - (۱) صف، صاف۔ سیدھا (۲) - (۱) مذ - (۲) مذ

نیٹ - (۳۶) - (۱) صف، صاف۔ سیدھا (۲) - (۱) مذ - (۲) مذ

نیٹ - (۳۷) - (۱) صف، صاف۔ سیدھا (۲) - (۱) مذ - (۲) مذ

نیٹ - (۳۸) - (۱) صف، صاف۔ سیدھا (۲) - (۱) مذ - (۲) مذ

نیچے پن ۱۰ صفت، گھٹیا پن، اوجھی حرکت۔
 نیچے نہ چھوڑے نہجانی، نیکم نہ چھوڑے ستائی، ۱۶۔ مثل، کوئی
 نہ اپنے اصل کو نہیں چھوڑتی۔
 نیچا، ۱۔ ذی، جا، ۱۵۔ صفت، ۱۱۔ تشبیب، گہرا، اوجھاو، ۲۰۔ کم۔ اونٹ
 ۳، مدغم، دھیما۔
 نیچا اونٹیا، ۱۶۔ مذ، تشبیب و فراز۔ آثار چٹھاؤ۔
 نیچا پڑنا، ۱۶۔ محاورہ، مغلوب ہونا، عاجز ہونا، مطیع ہونا، ۲۰۔ دنیا، اوجھاو
 کم ہونا، پختہ کرنا۔
 نیچا دکھانا، ۱۶۔ محاورہ، ۱۱۔ مغلوب کرنا، ذلیل کرنا، ۲۰۔ شرمندہ کرنا۔
 عزت دھانا۔
 نیچا دکھنا، ۱۶۔ محاورہ، شرمندگی اٹھانا، شرمندہ ہونا، شکست
 کھانا، ذلیل ہونا۔
 نیچر۔ (Nature) (سنے، چڑ، ۱۱۔ انگ، ۱۔ مٹ، ۱۱۔ فطرت
 عظمت، پیدائش، ۲۰، دنیا، عالم، موجودات، ۳، قدرت
 قانون قدرت۔
 نیچرل۔ (Natural) (سنے، پُج، ۱۱۔ انگ، صفت، قدرتی فطرتی۔
 نیچر می، ۱۰۔ پنچ، ری، ۱۱۔ صفت، نیچر کا ماننے والا۔ قانون فطرت اور قدرت
 پر چلنے والا۔ سرسید احمد خان کا عقیدہ۔
 نیچنا۔ (سنے، پُج، ۱۱۔ ذی، صفت، جھاڑنا۔
 نیچہ۔ (سنے، جا، ۱۰۔ فن، ۱۰۔ مذ، حق کی نئے، حق کی نیماں۔
 نیچہ بسانا، ۱۶۔ محاورہ، نیچے میں کوئی خوشبودار عرق ڈال کر اس کے
 دو نون طرف کے سوراخوں کو بند کر دینا۔
 نیچہ بند، ۱۰۔ مذ، نیچہ باندھنے والا، حق کے نیچے بنانے والا۔
 نیچہ بند ہی، ۱۰۔ فن، ۱۰۔ مٹ، نیچہ بنانے کا پیشہ۔
 نیچہ تازہ کرنا، ۱۶۔ محاورہ، نیچہ میں تازہ پانی ڈالنا۔
 نیچی، ۱۰۔ ذی، ۱۰۔ صفت، نسبت، تشبیب، ۲۰۔ اونٹے، ذیل، اوجھی۔
 کینی، گھٹیا، ۳، نیچے کی، زیرین، نیچے کی تائیت۔
 نیچی آواز، ۱۰۔ مٹ، اوجھی آواز کی ضد، ذی آواز، دھیما آواز۔
 نیچی نظر، ۱۰۔ مٹ، شرم دھیا سے نیچے کی ہونی، نگاہ۔ وہ نظر جو نیچے
 کی طرف مائل ہو۔
 نیچی نظر کرنا، ۱۶۔ محاورہ، شرم دھیا سے آنکھیں اُدپر نہ اٹھانا، ۲۰،
 کسی سے زنا، شرم سار ہونا۔
 نیچی نظر ہونا، ۱۶۔ محاورہ، شرمندہ ہونا، ۲۰، احسان مند ہونا۔ بار
 احسان سے آنکھیں نہ اٹھا سکتا۔
 نیچی نیچی نظروں سے دیکھنا، ۱۶۔ محاورہ، نظر چرا کے دیکھنا۔
 شرمائی ہونی، نگاہوں سے دیکھنا۔
 نیچے، ۱۰۔ ذی، ۱۰۔ صفت، تشبیب میں، پستی میں، ۲۰، ماتحت، زیر فرمان
 نائب مددگار، ۳، مدغم، دھیما، کم، گھٹیا، اونٹے۔
 نیچے اُدپر، ۱۰۔ ذی، فعل، اُدپر تے، ایک پر ایک، ایک نیچے ایک

اُدپر، الٹ پلٹ، اُتھل، پھل۔
 نیچے اُدپر ہو جانا، ۱۶۔ محاورہ، تہ و بالا ہو جانا، الٹ پلٹ ہو جانا۔
 اُتھل پھل ہو جانا۔
 نیچے سے، ۱۶۔ ذی، فعل، تپ سے، نیچا سے۔
 نیچے سے اُدپر تک، ۱۶۔ ذی، فعل، سر سے پاؤں تک، ماڈل
 سے آخر تک۔
 نیچے کا پاٹ بھاری ہے، ۱۶۔ مذ، یوی زبردست ہے۔
 نیچے کا دھڑ بھڑ بھڑ، ۱۶۔ مذ، یوی زبردست ہے۔
 نیچے کی سانس نیچے، اُدپر کی سانس اُدپر رہ جاتا، ۱۶۔ مثل،
 بسا بکارہ جانا، حیران اور دم بخوردہ رہ جانا۔
 نیچے لانا، ۱۶۔ محاورہ، پہلوؤں کی اصطلاح میں قابو کر لینا، کشتی میں دُبا
 لینا، پچھاڑنا، چیت کرنا۔
 نیچواہ، ۱۶۔ ذی، خواہ، ۱۱۔ صفت، نیک خواہ۔
 نیچوی بنا، ۱۶۔ ذی، یوی، پ، نا، ۱۱۔ صفت، نیک خواری۔
 نیچر، ۱۰۔ ذی، غسل صحت۔
 نیچر اس، ۱۰۔ مذ، پانی، نچل، ۲۰، دریا، سمندر، ۳، آسنو۔
 نیچر بہانا، ۱۶۔ محاورہ، آسنو بہانا، دونا، برستا۔
 نیچر، ۱۰۔ ذی، تیر، ۱۰۔ صفت، نہایت چمکدار ستارہ۔
 نیچر اصغر، چاند۔
 نیچر اعظم، نیچر ناماں، ۱۰۔ صفت، سب سے بڑا اور سب سے
 روشن جسم، فلکی، سورج۔
 نیچر، ۱۰۔ ذی، را، ۱۱۔ صفت، بد معاش، ۲۰، ۱۶۔ مٹ، ایسی سیندھی جو
 طلوع آفتاب سے قبل کی ہو۔
 نیچرنگ، ۱۰۔ ذی، رنگ، ۱۰۔ فن، ۱۰۔ مذ، را، مکر، فریب، ۲۰، شعیبہ
 جادو، ۳، چالاک، ۱۰۔ اصل نونگ یعنی جدید رنگ ہے۔
 نیچرنگ زمانہ، ۱۰۔ فن، ۱۰۔ مذ، زمانہ کا شعبدہ، زمانہ کی انہوں گری
 ۲۰، انقلاب روزگار، تیز زمانہ۔
 نیچرنگ ساز، ۱۰۔ فن، صفت، جادوگر، شعیبہ باز، بازیگر
 روزگار۔
 نیچرنگی، ۱۰۔ ذی، رنگی، ۱۰۔ فن، ۱۰۔ مٹ، جادوگری، فریب، شعیبہ بازی۔
 نیچرو، ۱۰۔ ذی، رُو، ۱۰۔ فن، ۱۰۔ مٹ، ۱۱، قوت، طاقت، ۲۰، زور آزمائی۔
 نیچر، ۱۰۔ ذی، رُو، ۱۱۔ ذی، نزدیک۔
 نیچرنا، ۱۰۔ ذی، نا، ۱۱۔ صفت، مص، ختم ہونا۔
 نیچرے، ۱۰۔ ذی، رُو، ۱۱۔ صفت، نزدیک۔
 نیچر، ۱۰۔ فن، حروف عطف، ۲۰، دیگر، اور ابھی۔
 نیچرہ، ۱۰۔ ذی، رُو، ۱۰۔ فن، ۱۰۔ مذ، برجھی، جھالا، ۲۰، کلک
 سنے، ایک قسم کا نرسل جس سے قلم بناتے ہیں، قلم کی چھوڑ۔
 نیچرہ باز، ۱۰۔ فن، صفت، قلم بردار، جھالے کے کرب جاننے والا۔
 نیچرہ بازی، ۱۰۔ فن، ۱۰۔ مٹ، نیچرہ کے کرب اور داؤ، پُج۔
 نیچرہ بردار، ۱۰۔ فن، صفت، نیچرہ لے کر چلنے والا۔

نیزوں پانی چڑھ جانا۔ ۱۷۔ محاورہ، لطیفی آنا۔ لڑائی چڑھ جانا۔
 نیسال۔ رستے نیسال، دن۔ ۱۔ مذ، قدیم شام کا ساتواں مہینہ اور اس
 مہینہ کی بارش۔ بیساکھ یا اپریل مئی کا موسم۔
 نیست۔ ۱۔ ۱۔ مذ، خالی، عدم، نابود۔ مددوم۔ فنا۔
 نیست کرنا۔ ۱۷۔ محاورہ، برباد کرنا۔ اچھا کرنا۔
 نیست و نابود کرنا۔ ۱۷۔ محاورہ، تہ تیغ و بنیاد سے کھودنا۔ بالکل
 فنا کر دینا۔
 نیست و نابود کرنا۔ ۱۷۔ محاورہ، مٹ جانا، خاک میں ملنا۔ فنا ہونا۔
 ناپید ہونا، نام و نشان نہ رہنا۔
 نیستان۔ ۱۔ ان۔ یس۔ تان، ۱۔ مذ، سرکنڈوں کا کھیت۔ بانسوں
 کا جنگل۔
 نیستی۔ ۱۔ نیس۔ قی، ۱۔ مذ، ہستی کا مقابل (۲)، ناپید ہونا۔ فنا۔
 عدم (۲)، بطلان، ناس (۳)، نخوست۔ بد نصیبی۔ بد اقبال (۴)، ٹھکرتی
 مفلسی۔ ناداری۔ بد حالی۔
 نیستی چھانا۔ ۱۷۔ محاورہ، گھوسٹ چھانا۔
 نیستی کا مارا۔ ۱۷۔ مذ، بد نصیب۔ بد اقبال۔ منحوس۔
 نیستی میں برخور داری۔ ۱۷۔ مثل، مفلسی میں اولاد پیدا ہونا۔ جو
 فرج کا باعث ہے۔
 نیش۔ ۱۔ ۱۔ مذ، نوک کی تیزی۔ نوک کی آبی (۲)، ڈنگ۔ خار۔ کانٹا۔
 (۳)، کھٹنے کی نوک (۴)، زہر۔
 نیش زنی۔ ۱۔ ۱۔ مذ، ڈنگ مارنا، بڑائی کرنا۔ کسی کے حق میں
 نقصان دہ کارروائی کرنا۔
 نیش عقرب۔ ۱۔ ۱۔ مذ، چھو کا ڈنگ۔ کنٹا، دشمنوں کی شرارت۔
 نیش عقرب نہ اڑے کہیں اسدت مقتضائے طبیعتش
 این اسدت۔ اس شخص کی نسبت کہا جاتا ہے۔ جس کی فطرت میں
 شرارت ہو۔
 نیشتر۔ ۱۔ ۱۔ مذ، نیشتر۔ زخم کھولنے کا اوزار۔
 نیشتر لگانا۔ ۱۷۔ محاورہ، (۱) نیشتر مارنا، نوک چھوٹا کرنا،
 صدمہ پہنچانا۔
 نیشکر۔ ۱۔ ۱۔ مذ، گنا۔ بونڈا۔ اکھ۔
 نیشن۔ (Nation) (نئے شے) ڈنگ۔ ۱۔ مذ، قوم۔ وطنی۔
 نیشنل۔ (National) (نیش۔ نل) ڈنگ۔ ۱۔ مذ، قومی۔
 قومی۔ وطنی۔
 نیشنل ازم۔ (Nationalism) (ڈنگ) مذ، قوم پرستی۔
 وطن پرستی۔
 نیشنل اسمبلی۔ (National Assembly) ڈنگ۔ ۱۔ مذ، قومی
 مجلس قانون ساز۔ مجلس ملی۔
 نیشنلسٹ۔ (Nationalist) (نئے۔ نل۔ یس۔ نل) ڈنگ۔
 ۱۔ مذ، قوم پرست۔ وطن پرست۔
 نیشنلٹی۔ (Nationality) (نئے۔ نل۔ یس۔ نل) ڈنگ۔ ۱۔ مذ،

قومیت۔ وطنیت۔
 نیفہ۔ ۱۔ ۱۔ مذ، پا چا کے گھیرے کا وہ حصہ
 جس میں ازار بند ڈالتے ہیں (۲)، حاشیہ جو کپڑے کو دوہرا کر کے
 سی دیتے ہیں۔
 نیفہ میں اڑ سنا۔ ۱۷۔ محاورہ، نقدی یا کسی چیز کو نیفہ میں لکھ لینا۔
 نیک۔ ۱۔ ۱۔ مذ، اچھا۔ عمدہ (۲)، سعید۔ پرہیزگار۔ عابد۔ پاکیزہ
 (۳)، رحیم (۴)، شریف۔ بہذب۔ بھلا مانس۔ نیک چلن۔
 نیک اختر۔ ۱۔ ۱۔ مذ، نیک بخت۔ سعید۔ مبارک۔
 نیک انجام۔ ۱۔ ۱۔ مذ، وہ جس کا انجام اچھا ہو۔
 نیک اندر بد۔ بد اندر نیک۔ ۱۷۔ مثل، اچھے کے ہاں بُرے اور بُرے
 کے ہاں اچھے کی جگہ ہوتے ہیں۔
 نیک اندیش۔ ۱۔ ۱۔ مذ، بھلائی سوچنے والا۔ نیک نیت۔
 نیک بخت۔ ۱۔ ۱۔ مذ، خوش نصیب۔ اقبال بلند۔ نصیبے والا (۲)،
 بھلا مانس۔ بھولا۔ بھالا۔ سیدھا۔ سادھا۔
 نیک بختی۔ ۱۔ ۱۔ مذ، سعادت مندی۔ پرہیزگاری۔
 پارسائی۔ بھلائی۔
 نیک بختی آنا۔ ۱۷۔ محاورہ، شامت آنا۔ کم ہمتی کی جگہ طنز۔
 نیک چلن۔ ۱۔ ۱۔ مذ، وہ شخص جس کا رویہ اچھا ہو۔ اچھے
 کردار کا آدمی۔
 نیک چلنی۔ ۱۔ ۱۔ مذ، اچھا چال چلن۔ نیک کردار۔ اعلیٰ الطوار۔
 نیک خصلت۔ ۱۔ ۱۔ مذ، پاک سیرت۔ خوش الطوار۔
 نیک خواہ۔ ۱۔ ۱۔ مذ، اچھائی اور بہتری چاہنے والا۔ دفا دار۔
 نیک حلال۔
 نیک دل۔ اچھائی کی نیت رکھنے والا۔ پاکیزہ خیالات رکھنے والا۔
 نیک دل۔ ۱۔ ۱۔ مذ، دل کا صاف ہونا۔
 نیک راہ پر لگانا۔ ۱۷۔ محاورہ، اچھی وضع رکھنا۔ نیکی کی تلقین کرنا۔
 نیک ساعت آنا۔ ۱۷۔ محاورہ، اچھی گھڑی آنا، اقبال کا وقت آنا۔
 نیک سرقت۔ ۱۔ ۱۔ مذ، نیک طینت۔ خوش اتصال۔
 نیک صلاح کا کیا پوچھنا، کہنا۔ ۱۷۔ مثل، نیک کام فوراً کر لینا چاہیے۔
 نیک فال۔ ۱۔ ۱۔ مذ، اچھا شگون۔ مبارک فال۔
 نیک فرجام۔ ۱۔ ۱۔ مذ، نیک انجام۔
 نیک قدم۔ ۱۷۔ مذ، مبارک قدم۔ جس کا آنا مبارک ہو۔
 نیک کافی۔ ۱۔ ۱۔ مذ، اچھی اور حلال کافی۔
 نیک گھڑی آنا۔ ۱۷۔ محاورہ، اچھی ساعت ہونا۔ اچھا وقت آنا۔
 نیک محضر۔ ۱۔ ۱۔ مذ، وہ شخص جو ہمیشہ دوسروں کو حاضر و
 غائب نیکی سے یاد کرے۔
 نیک مجلس۔ ۱۔ ۱۔ مذ، اچھی خصلت کا۔
 نیک منظر۔ ۱۔ ۱۔ مذ، نیک خوبصورت۔
 نیک نام۔ ۱۔ ۱۔ مذ، وہ شخص جس کا نام بھلائی کے ساتھ ہشور ہو۔
 نیک نامی۔ ۱۔ ۱۔ مذ، شہرت۔ ناموری۔

نیکی نفس (نہاد) ہونے سے، صفت، نیک مزاج، پاک طبیعت۔
 نیک نیت - ہونے سے، صفت، اچھے ارادے کا مالک۔
 نیک نیتی - اہل - امت، جھلائی - نیکی۔
 نیک و بد - ہونے سے، صفت، بُرا بھلا، بُرائی - بھلائی۔
 نیکیوں کو سسول اور بدوں کو بھول - ہونے سے، نیکوں کے ساتھ بدی اور بدوں کے ساتھ نیکی - اچھوں سے بُرائی اور بُروں سے اچھائی۔
 نیکو (نی - کا، ازق صفت) خوب اچھا۔
 نیکر - (Knickers) (دسے کر، کرنگ، ۱ - مٹ) جاگیا گھٹنوں سے ادرتیک کا پاجامہ۔
 نیکوہ دینے - گوہ (۱) صفت، اچھا - خوب - عمدہ۔
 نیکو خصال - ہونے سے، صفت، نیک خصلت، خوش سیرت، اچھی خصلت والا۔
 نیکو سیر (سیرت) - ہونے سے، صفت، اچھی خصلت والا۔
 نیکو شفا مل - ہونے سے، صفت، نیکو کار، نیک خصلت۔
 نیکو کار - ہونے سے، صفت، اچھے کام کرنے والا، خوش اطوار۔
 نیکو نہاد - ہونے سے، صفت، نیک نفس، پاک طبیعت۔
 نیکوئی - ہونے سے، کوہی (۱) صفت، نیکی، بھلائی، خوبی - عمدگی۔
 نیکھا - ہونے سے، صفت، (۱) نیک، روشن - صاف - چمکدار۔
 نیکھ - ہوا۔
 نیکی - ہونے سے، صفت، (۱) خوب اچھی (۲) مٹ، تاکہ - (۳) ناپسنے والی۔
 نیکی - ہونے سے، صفت، (۱) مٹ، (۲) بھلائی، خوبی - عمدگی - (۳) کا بیزیر احسان۔
 نیکی اترے - (۱) کلر دُعا، (۲) خفا ہونے کا فقرہ (۳) خدا کی سنوار۔
 نیکی دعا ہر کی بجائے۔
 نیکی اور بوجھ بوجھ - ہونے سے، صفت، نیک کام کرنے کے واسطے مشورہ کی حاجت کیا۔
 نیکی بدی - ہونے سے، صفت، بھلائی بُرائی، نفع نقصان، دوستی دشمنی۔
 نیکی بدی کے فرشتے - ہونے سے، صفت، فرشتے جو انسان کے اعمال لکھتے ہیں، کراما کا بنین۔
 نیکی بدی کے واسطے رکھتا - ہونے سے، صفت، (۱) محاورہ، وقت بے وقت کے واسطے کچھ نہیں انداز کرنا۔
 نیکی بُرا بگوانہ لازم - ہونے سے، صفت، اچھائی کو نظر انداز کر کے صرف بُرائیاں ہی پیش رکھی جائیں تو کہتے ہیں۔
 نیکی کا زمانہ نہیں - ہونے سے، صفت، اس زمانے میں نیکی کوئی قدر نہیں۔
 نیکی کا فرشتہ - ہونے سے، صفت، وہ فرشتہ جو اچھے اعمال لکھتا ہے۔
 نیکی کر دیا (کنو میں) میں ڈال - ہونے سے، صفت، نیکی کر کے بھول جانا۔
 نیکی کر کے بھلا دینا - اچھے بدلہ کی امید نہ رکھنا۔
 نیکی کرو خدا سے چاہو - ہونے سے، صفت، کسی سے اچھا سلوک اس نیت سے کرنا چاہئے کہ اس کا اجر خدا سے لے گا۔
 نیکی کی جڑ سدا بہری - ہونے سے، صفت، نیکی کسی ضائع نہیں ہوتی۔

نیکی نیک راہ، بدی بد راہ - ہونے سے، صفت، یعنی ہر ایک کو اپنے اچھے بُرے فعل کی جزا اور سزا ضرور ملے گی۔
 نیکی - ہونے سے، صفت، (۱) محاورہ، بخیرہ، تندر - بھینٹ دیا، بیاہ میں شرتہ داروں کو تنگوں کے طور پر یا خدمت گاروں کو بطور انعام دی جانے والی رقم۔
 نیکی جوگ - ہونے سے، صفت، (۱) محاورہ، انعام جو شادی کی تقریب پر شرتہ داروں اور خادموں کو دیا جاتا ہے۔
 نیکی جوگی - ہونے سے، صفت، شادی بیاہ کی تقریبوں میں انعام کے عقیدہ اور سستی لوگ۔
 نیکی دینا - ہونے سے، صفت، (۱) محاورہ، شادی بیاہ کے موقعوں پر خدمت گاروں کو حق انعام اور شرتہ داروں کو تنگوں کے طور پر کچھ نقدی دینا۔
 نیکی لگانا - ہونے سے، صفت، (۱) محاورہ، اچھے کام پر لگانا، خوشی کے موقع پر خرچ کرنا، تمام خرچ کر ڈالنا، بریاد کر دینا، ضائع کرنا۔
 نیکی لینا - ہونے سے، صفت، (۱) محاورہ، شادی بیاہ کی تقریبوں میں شرتہ داروں اور خادموں کا اپنا حق لینا۔
 نیگرو - (Negro) (نیگ - رو، ۱) نگ - ۱ - مذ، زنگی حبشی - سیاہ قام۔
 نیل - ہونے سے، صفت، (۱) مذ، حصول (۲) دست رس۔
 نیل مرام - ہونے سے، صفت، (۱) مذ، حصول مقصد، مراد پانا، مقصد پورا ہونا۔
 نیل - ہونے سے، صفت، (۱) مذ، نیلارنگ، (۲) دسمہ (۳) مصر کا ایک مشہور دریا، (۴) چٹ کانشان۔
 نیل طری - ہونے سے، صفت، (۱) مذ، گھنیا نیل۔
 نیل بگوانا - ہونے سے، صفت، (۱) محاورہ، (۲) نیل کا ماٹ بگوانا، نیل کا پیٹ کر خراب ہو جانا، (۳) گم بختی آنا، شامت آنا، (۴) جھوٹی باتیں بنانا، غلط افواہیں اڑانا، (۵) پاگل ہو جانا، عقل نہ رہنا، (۶) بھاری نقصان ہونا۔
 نیل پڑ جانا (پڑنا) - ہونے سے، صفت، (۱) محاورہ، چوٹ کے صدمہ سے جسم پر نیلا داغ پڑ جانا۔
 نیل چلانا - ہونے سے، صفت، (۱) محاورہ، بارش کا زور کم کرنے کے لیے جاہل لوگ تلوار پر نیل رکھ کر بھلاتے ہیں۔
 نیل ڈھلانا - ہونے سے، صفت، (۱) محاورہ، مرتے وقت آنکھوں سے آنسو ٹپکنا، موت کے آثار پیدا ہونا، (۲) بے حیا اور بے شرم ہو جانا۔
 نیل کا ٹیکا - ہونے سے، صفت، (۱) مذ، نیل یا سیاہی کانشان جو بچوں کے ماتھے پر نظر بد سے بچنے کیلئے بنا دیتے ہیں، (۲) بدنامی کا داغ، (۳) روسیاهی۔
 نیل ماتھے بگوانا - ہونے سے، صفت، (۱) محاورہ، (۲) کٹا پتہ، جھوٹی خبر مشہور ہونا، کہتے ہیں کہ جب رنگ بڑوں کا نیل خراب ہو جاتا ہے اور رنگ اچھا نہیں آتا تو وہ کوئی غلط خبر مشہور کر دیتے ہیں - ان کا عقیدہ ہے کہ غلط افواہ پھیلانے سے خراب نیل ٹھیک ہو جاتا ہے۔
 نیل کنڈے - ہونے سے، صفت، (۱) مذ، ایک رنگین پرندہ جس کی گردن اور پر نیلے ہوتے ہیں۔

نیل (دنی، لی) دف۔ صف، نیلے رنگ کی چیز۔ نیل گوں۔ آبی، آسمانی نیلا کی تائینت۔
 نیل پیلے آنکھیں کرنا۔ ۱۶۔ عمارہ، بے مد غضب ناک ہونا۔ بہت غصہ کرنا۔
 نیل خام۔ دف۔ صف، نیلے رنگ کا۔ نیلگوں۔ کبود (۲)، آسمان۔
 نیم (دق، ۱۔ مذ، القا، مذہبی پابندی۔
 نیم ۵۱۔ ۱۔ مذ، ایک پھتتا اور درخت۔ جس کے پتے اچھال اور رس بہت گڑھے ہوتے ہیں۔
 نیم کی مہنی بلانا۔ ۱۶۔ عمارہ، کنایہ ہے مرض آتشک میں مبتلا ہونے سے۔
 نیم کی مہنی نیم کی مہنی ہل کر مکیاں اڑاتا رہتا ہے۔
 نیم کی بولی۔ ۱۳۔ صفت، نیم کو نیم کا پھل۔
 نیم۔ ۶۔ دف۔ صف، نصف، آدھا۔
 نیم آستین۔ ۱۔ صفت، ایک قسم کا کرتا جس کی آستین آدھی ہوتی ہے۔
 نیم اشارہ۔ ۶۔ ۱۔ مذ، مہم اشارہ۔
 نیم باز۔ ۶۔ صفت، آدھا کھلا آدھا بند۔
 نیم برشت۔ ۶۔ دف۔ صف، آدھا کھا۔ آدھا کھا۔ آدھا بنا ہوا۔
 نیم بسمل۔ ۶۔ صفت، آدھا داغ کیا ہوا، گھائل، مجروح، آدھا ہوا۔
 نیم تباہ۔ ۶۔ دف۔ صف، آدھا لٹا ہوا۔
 نیم ٹر۔ ۶۔ صفت، کچھ پوہی سا پڑھا ہوا، حرف شناس۔ جیسے پوری تعلیم نہ دی جائے۔
 نیم جبال۔ ۶۔ دف۔ صف، ۱۱۔ آدھ مڑا۔ نیم مردہ۔ قریب المرگ، مکرور یا مکر نیم خوش۔ ۶۔ صفت، آدھا خوش دیا ہوا۔ ہلکا ہلکا ہوا۔ آدھا چکا ہوا۔
 نیم حکیم۔ ۶۔ ۱۔ مذ، نا تجربہ کار حکیم۔ آن پڑھا اور عطائی حکیم۔
 نیم حکیم خطہ جان۔ نیم ملاحظہ ایمان۔ ۱۱۔ مثل، نا تجربہ کار سے کام لیا جائے کا خطہ لگا رہتا ہے۔
 نیم خواب۔ ۶۔ دف۔ صفت، کچی نیند۔ جاگنے سونے کی کیفیت۔
 نیم خوردہ۔ ۶۔ صفت، چھوٹا پس خوردہ۔
 نیم راضی۔ ۶۔ دف۔ صفت، چھوٹا رضامند۔
 نیم رخ۔ ۶۔ دف۔ صفت، ایک رخی تصویر۔
 نیم رس۔ ۶۔ دف۔ صفت، جو چیز ابھی پوری تیار نہ ہوئی ہو۔
 نیم رضا۔ ۶۔ صفت، کسی قدر رضامندی۔
 نیم روز۔ ۶۔ صفت، دوپہر۔
 نیم شفقت۔ ۶۔ دف۔ صفت، نا کام۔ آدھا بندھا ہوا۔
 نیم سوختہ۔ ۶۔ ۱۔ صفت، آدھا جلا ہوا۔
 نیم سیر۔ ۶۔ دف۔ صفت، آدھا پیٹ بھرا ہوا۔
 نیم سب۔ ۶۔ ۱۔ صفت، آدھی رات۔
 نیم کش۔ ۶۔ دف۔ صفت، آدھا کھینچی ہوا۔ آدھا اندر آدھا باہر۔
 نیم کشتہ۔ ۶۔ دف۔ صفت، گھائل، نرمی۔
 نیم گرم۔ ۶۔ دف۔ صفت، شہ گرم۔ وہ پانی جو پوری طرح گرم نہ ہو۔ چھوٹا گرم۔ لگتا۔

نیل کنٹھی۔ ۱۳۔ صفت، ایک بوٹی جس کا رنگ نیلا ہٹ پر ہوتا ہے۔
 نیل کی سلاسیاں آنکھوں میں پھینا۔ ۱۶۔ عمارہ، اندھا کرنا۔
 نیل کی کوٹھی۔ نیل بننے کا کارخانہ۔
 نیل گاڈ۔ نیل گائے۔ ۱۶۔ صفت، بہن کی قسم کا چھوٹی گائے کے برابر بھگتی ہو پایہ۔
 نیل گر۔ ۶۔ صفت، نیل بنانے والا۔ نیل کا کام کتنے والا۔
 نیل گوں۔ نیلگوں۔ ۶۔ صفت، نیلے رنگ کا۔ آسمانی رنگ کا نیلا۔
 نیل گھونٹنا۔ ۱۶۔ عمارہ، نیل کو باریک کرنا۔ نیل پانی میں ڈال کر ہلانا۔
 نیل لڑائی ڈالنا۔ کہرام مچانا۔
 نیلا (دنی، لا، ۱۶۔ ۱۔ صفت، ۱۔ مذ، نیلے رنگ کا۔ نیل گوں۔ آبی۔ آسمانی۔ کبود، ۲) ایک قسم کا کبوتر۔
 نیلا پڑ جانا۔ ۱۶۔ عمارہ، نیلے رنگ کا بھجانا۔ کالا پڑ جانا۔
 نیلا پیلا ہونا۔ ۱۶۔ عمارہ، غصے ہونا۔ خفا ہونا۔ قہر و غضب سے پتھرے کا رنگ متغیر ہونا۔
 نیلا ٹھوٹھا۔ ۱۶۔ ۱۔ مذ، ٹوٹنا۔ ایک دو ہوتا ہے سے تیار کی جاتی ہے۔
 نیلا ڈورا باندھنا۔ گنڈا پہنانا۔ ۱۶۔ عمارہ، بڑی نظر سے بچانے کے لیے نیلے رنگ کا ڈورا باندھنا۔
 نیلا کر دینا (کرنا)۔ ۱۶۔ عمارہ، نیلا رنگ دینا، حد سے زیادہ مارنا۔ اتنا مارنا کہ بدن پر نیلے نشان پڑ جائیں۔
 نیلا کو دنا۔ ۱۶۔ عمارہ، سونپوں سے ہاتھ پاؤں گود کر آن میں نیل بھرنا۔
 نیلاب۔ (دنی، لاب، ۱۶۔ ۱۔ مذ، دریا۔
 نیلا جا۔ (دنی، لا، ۱۶۔ ۱۔ صفت، بے شرم۔ بے حیا۔
 نیلام۔ (دنی، لام، ۱۶۔ ۱۔ مذ، بولی بول کر بیچنا۔ بولیوں کے ذریعے قیمت بڑھاتے جانا۔
 نیلام پر چڑھنا۔ ۱۶۔ عمارہ، نیلام کیا جانا۔ نیلام کر کے بیچ دینا۔
 نیلام کا مال۔ ۱۶۔ ۱۔ مذ، کم وقت مال۔ ناقص اور حقیر چیز۔
 نیلام کرنا۔ ۱۶۔ عمارہ، بولی بول کر بیچنا۔
 نیلام گھر۔ ۱۶۔ ۱۔ مذ، وہ مقام جہاں بولی دے کر چیزیں فروخت ہوتی ہیں۔
 نیلامچی۔ (دنی، لام، ۱۶۔ ۱۔ صفت، نیلام کرنے والا۔
 نیلامچی۔ (دنی، لام، ۱۶۔ ۱۔ صفت، نیلام سے متعلق۔
 نیلا ہٹ۔ (دنی، لا، ہٹ، ۱۶۔ ۱۔ صفت، نیلا پن۔ نیل جھلک۔
 نیلاک۔ (دنی، لک، ۱۶۔ ۱۔ مذ، ہل دار کرنا۔ بوٹے دار جامہ۔
 نیلکم۔ (دنی، کم، ۱۶۔ ۱۔ مذ، نیلے رنگ کا قیمتی پتھر۔
 نیلکری۔ ۱۶۔ ۱۔ صفت، ایک فرنی پری۔
 نیلو فر۔ (دنی، لو، فر، ۱۶۔ ۱۔ مذ، ایک قسم کے نیلے پھول کا نام جو پانی میں پیدا ہوتا اور دوا کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ کنول۔
 نیلو فری۔ (دنی، لو، فر، ۱۶۔ ۱۔ صفت، نیلو فر کے رنگ کی نیلگوں۔

نیم گھنٹہ (30 منٹ) ناقص العلم - معمولی پڑھا لکھا مولوی۔

نیم گھنٹہ (30 منٹ) نصف انکمپلیٹ سے دیکھنا۔

نیم گھنٹہ (30 منٹ) نصف آدھا کھلا ہوا۔

نیم گھنٹہ (30 منٹ) چھوٹی ٹواری۔

نیم گھنٹہ (30 منٹ) مارنے کے لیے نیم اٹھانا۔

نیم گھنٹہ (30 منٹ) مضبوط ٹھیکھا۔ زور آور قوی (۲) دیر پا۔

نیم گھنٹہ (30 منٹ) بچتہ۔ بگاڑا، بھاری۔ ٹھوس۔

نیم گھنٹہ (30 منٹ) نصف (۲) ایک قسم کا اودھنا یا بھانجا۔

نیم گھنٹہ (30 منٹ) طرف (۲) برقع (۵) زمانہ استعمال کا اندر دینی

لباس - محرم۔

نیم آستین (30 منٹ) ایک قسم کا کرمانا۔ جس کی آستینیں آدھی

ہوتی ہیں۔

نیم بدلی (30 منٹ) ایماندار۔ پاکدامن۔ پارسا۔ پرہیزگار

(۲) پابند قاعدہ۔ پابند اوقات (۳) دیانت دار (۴) خدا

ترس۔ صاف باطن۔

نیمے دروں میںے بروں (30 منٹ) آدھا اندر۔ آدھا باہر۔

میں (30 منٹ) نہیں۔

نیم (30 منٹ) آنکھ چشم (۲) نظر۔ نگاہ

نیم شکوہ (30 منٹ) ایک قسم کا عمدہ باریک کپڑا۔ خاصہ۔

نیم تنوٹا (30 منٹ) اندھا ہونا (۲) محتاج ہونا۔

نیم تھینا (30 منٹ) بات بات پر رو دینے والا۔ زود رنج۔

نیم مٹنی (30 منٹ) چڑچڑسی۔ زود رنج عورت۔ بات بات پر رو دینے

والی۔ ہر بات پر زردہ اور ناراض ہونے والی۔

نیٹیاں (30 منٹ) ناں (30 منٹ) آنکھیں۔

نیزند (30 منٹ) خواب۔ سونے کی کیفیت۔ جاگنے کی ضد۔

نیزند آجانا، آنا (30 منٹ) سوجانا۔ سونے کی خواہش ہونا۔

نیزند ڈھسٹ، اڑھانا (30 منٹ) نیزندہ آنا۔ نیزندہ کاجلتے رہنا۔

آنکھ کھل جانا۔ جاگ پڑنا۔

نیزند اڑنا (30 منٹ) نیزندہ آنا۔

نیزند اڑنا (30 منٹ) نیزندہ آنا۔

نیزند بھرجانا (30 منٹ) سونے کی خواہش نہ رہنا۔

نیزند بھرج کر سونا (30 منٹ) بے فکری سے سونا جی بھر کر سونا۔

نیزند بھری آنکھیں (30 منٹ) وہ آنکھیں جن میں نیزند کا خار ہو۔

نیزند بھری ہونا (30 منٹ) آنکھوں میں نیزند کا خار ہونا۔

نیزند بڑنا (30 منٹ) نیزندہ آنا۔ سوجانا۔

نیزند جانا (30 منٹ) نیزندہ آنا۔ نیزند اڑنا۔

نیزند حرام کرنا (30 منٹ) سوتے میں تنگ کرنا۔ سونے نہ دینا۔ سوتے

سے جگا دینا۔

نیزند کا فور ہونا (30 منٹ) نیزند اڑ جانا۔

نیزند کا ماتا (30 منٹ) خواب آلود۔ نیزند بھرا ہوا۔

نیزند کھودینا (30 منٹ) سونے نہ دینا۔ نیزند اڑا دینا۔

نیزند کی چھٹی (30 منٹ) مٹ، خونگی۔ ذرا سی دیر آنکھ چھینکنا۔

نیزند کے مارے بڑھال ہونا (30 منٹ) بڑے زور کی نیزند

آنا۔ شدت کی نیزند آنا

نیزند میں قفل (فتور) آنا (30 منٹ) نیزند بھر کر سونے نہ پانا۔

نیزند (30 منٹ) نیزند (30 منٹ) ایک قسم کا سوتلی باریک کپڑا جس

پر آنکھ کی مانند تارے تارے سے پتے ہوتے ہیں۔ پھول

دار کپڑا۔

نیو (30 منٹ) نیو (30 منٹ) بنیاد، دیوار کی جڑ بننا۔

نیو جانا (30 منٹ) مضبوط کرنا۔

نیو ڈالنا (30 منٹ) کسی مکان کی بنیاد رکھنا (۲) کسی بات کی تہید

اٹھانا (۳) شروع کرنا۔

نیو سے بیٹھنا (30 منٹ) کسی تعمیر کا بنیاد سے بیٹھ جانا۔

نیو کھودنا (30 منٹ) بنیاد کھودنا۔ جڑ کھودنا۔

نیو (30 منٹ) (30 منٹ) پرسکون۔ سنجیدہ۔ مطمئن۔

نیو (30 منٹ) (30 منٹ) شادی بیاہ کی تقریہوں میں نقدی

دینے لینے کی رسم۔

نیو تار بھیجنا، دینا (30 منٹ) شادی میں طلب کرنا۔ تقریب میں

مدد کرنا۔ دعوت دینا۔

نیو تار (30 منٹ) (30 منٹ) بلا داد بھیجنا۔ دعوت دینا۔

نیوز (30 منٹ) (30 منٹ) اخبار۔

نیوز (30 منٹ) (30 منٹ) اخبار میں خبروں کا نگران اعلیٰ۔

نیوز ایجنٹ (30 منٹ) (30 منٹ) اخبار

فروغ۔ خبر رساں۔

نیوز ایجنسی (30 منٹ) (30 منٹ) اطلاع رسانی۔ محکمہ

خبر رساں۔ (News Agency)

نیوز پرنٹ (30 منٹ) (30 منٹ) اخبار چھاپنے

کا قسمی کاغذ۔

نیوز پیپر (30 منٹ) (30 منٹ) اخبار۔

نیوز لیٹر (30 منٹ) (30 منٹ) اخبار نامہ۔ اخباری

مراسلہ۔ جس میں خبریں یا خبروں پر تبصرہ درج ہو۔

نیوش (30 منٹ) (30 منٹ) سننے والا۔ بطور لاحقہ

استعمال ہوتا ہے۔ جیسے حق نیوش۔

نیوشندہ (30 منٹ) (30 منٹ) سننے والا۔

نیوگ (30 منٹ) (30 منٹ) ہندوؤں میں اولاد حاصل کرنے کے

لیے ایک خاص رسم۔

نیولا (30 منٹ) (30 منٹ) چوبے کی قسم کا ایک جانور جو سانپ

کا دشمن ہے۔

نیولی (30 منٹ) (30 منٹ) روپے رکھنے کی لمبی سی تھیل۔ ہیمانی

نیون (30 منٹ) (30 منٹ) ایک قدرتی گیس جو تھوڑا عرصہ گزرا

نیمہم - (۵۳-۱-۱) خدا پیار - محبت - عشق -
 نمبر لگانا - (۱۶-مادرہ) آگ لگانا - عشق لگانا - محبت کرنا -
 نیمہم - (۵-صفت) محبت کرنے والا -

۱۸۹۸ء دریافت ہوئی ہے۔ یہ گیس روشنی کے کام آتی ہے۔
 نیوی (Navy) سے۔ وی، ۱۶، انگ ۱۱۔ مٹ، بکری توج۔
 جنگی جہازوں کا بیڑا۔ جنگی بیڑا۔

واٹ - (Watt) (انگ ۱۔ منڈ) برقی قوت کا پیمانہ۔
 واٹر - (Water) (واٹر، انگ ۱۔ منڈ) پانی، جبل۔ آب۔
 واٹر پروف - (Water Proof) (انگ ۱۰۔ صنف) یہی ردک۔
 جس پر پانی اثر نہ کرے رہا س وغیرہ۔
 واٹر پولو - (Water Polo) (انگ ۱۰۔ منڈ) پانی پولو۔ ایک کھیل
 جو تیراک کھیلتے ہیں۔
 واٹر سپلائی - (Water Supply) (انگ ۱۔ منڈ) پینے کا پانی
 فراہم کرنے کا انتظام۔ آب رسانی۔
 واٹر کالر - (Water Colour) (انگ ۱۔ منڈ) آب رنگ۔ پانی
 کے رنگ جو تیل کے بجائے پانی میں حل کیے جائیں، آب رنگ
 تصویریں، آب رنگ مصوری۔
 واٹر ورکس - (Water Works) (انگ ۱۰۔ منڈ) کارخانہ
 آب رسانی۔
 واٹر مارک - (Water Mark) (انگ ۱۔ منڈ) کاغذ کے اندرونی
 نشانات جن میں بنانے والا کا نام وغیرہ لکھا ہوتا ہے۔
 والٹی - (والٹی، ڈی۔ سی) مضبوط۔ پکا۔ مستحکم۔ پختہ۔ مستقل۔
 واجب - (واجب، جی۔ سی) صنف، ضروری۔ لازم۔ مناسب۔ ٹھیک
 لائق۔ سزاوار۔ قابل۔ ۲۔ جو اپنے وجود میں دوسرے کا محتاج
 نہ ہو۔ خدا کے تعالیٰ ۳۔ ہمیشہ دائم ہم، رفیق میں، وہ کہن دین
 جس کو بغیر عذر ادا نہ کرنے والا کہہ گا۔ ۵۔ (علم ریاضی میں)
 وہ مسووم جس کی کسر کا عدد منخرج کے عدد سے چھوٹا ہو (۶) خواہ
 مشاہرہ۔ ماہانہ۔ ماہ وار جمعہ واجبات۔
 واجب انا۔ ۱۷۔ عاوارہ، لازم انا، ضروری ہو جانا، ۲۲، ذتے نکلتا۔
 واجب الاتباع۔ ۱۰۔ صنف، جس کی پیروی ضروری ہو۔
 واجب الادا۔ ۱۰۔ صنف، جس کا ادا کرنا ضروری ہو۔ ایسی رقم جو
 کسی کے ذتے نکلتی ہو۔
 واجب الماذعان۔ ۱۰۔ صنف، جس کی تعمیل ضروری ہو۔
 واجب الاظہار۔ ۱۰۔ صنف، جس کا ظاہر کرنا یا بیان کرنا
 ضروری ہو۔
 واجب التسلیم۔ ۱۰۔ صنف، جس کا ماننا ضروری ہو۔
 واجب التعزیر۔ ۱۰۔ صنف، قابل سزا۔ وہ فعل جو جرم کی حد میں
 یا قانون کی زد میں آئے۔
 واجب التعمیم۔ ۱۰۔ صنف، تعظیم کرنے کے لائق۔ بزرگ۔ محترم۔
 واجب التعمیل۔ ۱۰۔ صنف، جس پر عمل کرنا لازمی ہو۔
 واجب الزحم۔ ۱۰۔ صنف، جس کا کھانے یا رقم کرنے کے لائق۔
 واجب الرعايت۔ ۱۰۔ صنف، قابل معافی۔ رعایت کا مستحق۔
 واجب الطلب۔ ۱۰۔ صنف، جس کا طلب یا وصول کرنا
 ضروری ہو۔
 واجب العرض۔ ۱۰۔ صنف، بنانے یا بیان کرنے کے قابل، ۲۲،
 عرضی دعوے۔ تحریری معروضہ، ۳، وہ شرائط جو قانونی

بند و بست کے ماتھے پر مالکوں اور کاشتکاروں کے درمیان گاشت
 وغیرہ کیے بارے میں لکھی جائیں
 واجب القتل۔ ۱۰۔ صنف، قتل کرنے کے قابل۔ گردن زنی۔
 واجب القطع۔ ۱۰۔ صنف، کاٹ دینے کے قابل۔
 واجب الوجود۔ ۱۰۔ صنف، جس کی ذات اپنے وجود میں کسی کی محتاج
 نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ۔
 واجب الوصول۔ ۱۰۔ صنف، جس کا وصول کرنا واجب ہو۔ یافتنی
 واجب جاننا۔ واجب سمجھنا۔ ۱۷۔ عاوارہ، لازم سمجھنا۔ ضروری
 جاننا۔ فرض سمجھنا۔ لازم قرار دینا۔
 واجب ہونا۔ ۱۷۔ عاوارہ، ضروری ہونا، ۲۲، ذتے نکلتا۔
 واجبات۔ (واجب، جی۔ سی) بات، (ع۔ ا۔ منڈ) واجب کی جمع۔ لازمی۔
 یا ضروری چیزیں۔ لوازمات، ۲۲، رقم واجب الوصول۔
 چڑھی ہوئی
 واجبی۔ ۱۰۔ صنف، ضروری۔ لازمی، ۲۲، بجا۔ درست۔
 ٹھیک۔ معقول۔ دائرہ۔ تھوڑی کسی قدر۔
 واجبی بات۔ ۱۰۔ صنف، درست بات۔ ٹھیک بات۔
 واجبی خرچ۔ ۱۰۔ منڈ، متوسط خرچ۔ لازمی خرچ۔
 واجبی سبب۔ ۱۰۔ صنف، تابع نسل، تھوڑا سا ذرا سا تعلق مقدار میں۔
 واجبی قیمت۔ ۱۰۔ صنف، مناسب قیمت۔ وہ قیمت جو نہ
 زیادہ ہو نہ کم ہو۔
 واجد۔ ۱۰۔ صنف، وجود دینے والا، ۲۲، پانے والا، ۳، بات لگانے
 والا، ۱۰، اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام۔
 وایچ - (Watch) (انگ ۱۰۔ منڈ) جھپی گھڑی۔
 وایچ میکس - (Watch Maker) (انگ ۱۰۔ منڈ) گھڑی درست
 کرنے والا گھڑی ساز۔
 واجد۔ ۱۰۔ صنف، (ع۔ ا۔ منڈ) ایک۔ مفرد۔ فرد، ۲۲، یگانہ
 یکتا۔ اکیلا، ۳، نرا۔ تنہا۔ صرف۔ تخص۔ فقط ہم، خدا کے تعالیٰ
 کا ایک صفاتی نام۔
 واحد العین۔ ۱۰۔ صنف، ایک آنکھ کا۔ یگانہ۔ یک چشم۔
 واحد حقیقی۔ ۱۰۔ صنف، اصلی یکتا۔ خدا کے تعالیٰ۔
 واحد شائد۔ ۱۰۔ صنف، واقف۔ باخبر، ۲۲، پانے والا۔
 واحدیت۔ ۱۰۔ صنف، دی یکتا، ۱۰۔ صنف، ایک ہونا۔ یکتائی۔
 وادی۔ ۱۰۔ صنف، (ع۔ ا۔ منڈ) پہلی زمین، گھاٹی، ۲۲، دو پہاڑوں کے
 درمیان کی زمین، ۳، نالے یا دریا کے سیلابی پانی کی نذر گاہ، ۱۰،
 انڈیا، جنگل، صحرا، بیابان۔
 وادی القرا۔ ۱۰۔ صنف، مدینہ منورہ کے قریب ایک وادی۔
 وادی ایمن۔ ۱۰۔ صنف، (ع۔ ا۔ منڈ) وہ جنگل جہاں حضرت موسیٰ اپنی
 بیوی کو دروزہ میں مبتلا چھوڑ کر آگ کی تپش میں نکلے تو ایک
 درخت پر خدا کی چوٹی نظر آئی۔ یہ مقام کوہ طور کے دائیں جانب تھا۔
 اس لیے وادی ایمن مشہور ہوا۔

واک آؤٹ - (Walkout) (انگ، اہند، احتجاج کے طور پر اٹھ کر چلے جانا۔
واگن - (وا، گن، اوق، ۱- منٹ، شیرینی، جھگڑا، امورت۔
وال - (وہ، صفت، والا کا مختلف۔
والا - (وا، لا، ۵) مرکبات میں مختلف معنوں میں آتا ہے (۱) اسم کے بعد آنے کو کہیں نہیچنے والے کام کرنے والے یا پیشہ کرنے والے کے معنے دیتا ہے۔ جیسے برت والا۔ دودھ والا۔ ٹھیلے والا اور کبھی مالک کے جیسے نانڈ والا۔ گھر والا ۱۲۶۔ مصدر کے ساتھ آنے کو مصدر کا الف بے سے بدل جاتا ہے اور مرکب داخل کے معنے دیتا ہے جیسے پڑھنے والا۔ کرنے والا ۴۳، کبھی اکہ کے ساتھ اگر صفت بناتا ہے جیسے گھاس والا دم، کبھی نسبت کے معنی دیتا ہے جیسے لاہور والا۔ کراچی والا۔
والا - (وا، لا، ۲) صفت، (۱) بلند، عالی، اونچا، ذی عزت، جنگ۔
والا تہار - (ون، صفت، عالی خاندان۔
والا جاہ - (والا شان، والا قدر، والا کبر، (۲) صفت، بلند مرتبے والا۔ بڑی شان والا۔ بلند عہدے یا نسبتے والا بڑے گھرانے کا۔ عالی خاندان۔
والا نامہ - (ون، ۱- ہند، بلند مرتبہ آدمی کا خط۔
والا نثار - (ون، ۱- ہند، اونچے گھرانے والا۔
والا نگاہ - (ون، ۱- ہند، بلند نظر رکھنے والا۔ عالی خیال۔
والا ہمت - (ون، ۱- ہند، بلند ہمت۔ حوصلہ مند۔
والد - (وا، ولد، ۱- ہند، باپ، پاپا، پیر، پتا۔
والد بزرگ وار - (والد ماجد، (۲) صفت، قابل احترام باپ۔ پیر بزرگ۔
والدہ - (وا، ول، ۵) منٹ، ماں، اماں، ملاز، ماما۔
والدین - (وا، ول، ۱- ہند، منٹ، ماں باپ۔ مادر و پدر۔
وال ریس - (Volress) (وال، ریس، (انگ، ۱- ہند، قطب شمالی کا ایک جائز جس کے دانت بہت لمبے ہوتے ہیں گاؤڈریٹی، والسلام، (۲) ریس، لام، (۲) اور سلام پہنچے۔
والنٹیر - (Volunteer) (وا، ٹون، ۱- ہند، وہ شخص جو اپنی خوشی اور رضا سے بلا تنخواہ کوئی خدمت انجام دینے کا ذمہ لے۔ رضا کار۔
والنٹیر کورپس (Volunteer Corps) (انگ، ۱- منٹ، رضا کاروں کی ٹیم یا رسالہ۔
والنڈ - (وا، لا، ۱) خدا کی قسم (۲) بے شک۔ یقیناً (۳) پہنچ۔ بنی الحقیقت۔
والنڈ بالانڈ - قسم میں زور پیدا کرنے کیلئے بولتے ہیں۔ دوسری قسم۔
والنڈ اعلم - (وا، لا، ۵) - (۱) - (۲) - (۳) - (۴) - (۵) - (۶) - (۷) - (۸) - (۹) - (۱۰) - (۱۱) - (۱۲) - (۱۳) - (۱۴) - (۱۵) - (۱۶) - (۱۷) - (۱۸) - (۱۹) - (۲۰) - (۲۱) - (۲۲) - (۲۳) - (۲۴) - (۲۵) - (۲۶) - (۲۷) - (۲۸) - (۲۹) - (۳۰) - (۳۱) - (۳۲) - (۳۳) - (۳۴) - (۳۵) - (۳۶) - (۳۷) - (۳۸) - (۳۹) - (۴۰) - (۴۱) - (۴۲) - (۴۳) - (۴۴) - (۴۵) - (۴۶) - (۴۷) - (۴۸) - (۴۹) - (۵۰) - (۵۱) - (۵۲) - (۵۳) - (۵۴) - (۵۵) - (۵۶) - (۵۷) - (۵۸) - (۵۹) - (۶۰) - (۶۱) - (۶۲) - (۶۳) - (۶۴) - (۶۵) - (۶۶) - (۶۷) - (۶۸) - (۶۹) - (۷۰) - (۷۱) - (۷۲) - (۷۳) - (۷۴) - (۷۵) - (۷۶) - (۷۷) - (۷۸) - (۷۹) - (۸۰) - (۸۱) - (۸۲) - (۸۳) - (۸۴) - (۸۵) - (۸۶) - (۸۷) - (۸۸) - (۸۹) - (۹۰) - (۹۱) - (۹۲) - (۹۳) - (۹۴) - (۹۵) - (۹۶) - (۹۷) - (۹۸) - (۹۹) - (۱۰۰) - (۱۰۱) - (۱۰۲) - (۱۰۳) - (۱۰۴) - (۱۰۵) - (۱۰۶) - (۱۰۷) - (۱۰۸) - (۱۰۹) - (۱۱۰) - (۱۱۱) - (۱۱۲) - (۱۱۳) - (۱۱۴) - (۱۱۵) - (۱۱۶) - (۱۱۷) - (۱۱۸) - (۱۱۹) - (۱۲۰) - (۱۲۱) - (۱۲۲) - (۱۲۳) - (۱۲۴) - (۱۲۵) - (۱۲۶) - (۱۲۷) - (۱۲۸) - (۱۲۹) - (۱۳۰) - (۱۳۱) - (۱۳۲) - (۱۳۳) - (۱۳۴) - (۱۳۵) - (۱۳۶) - (۱۳۷) - (۱۳۸) - (۱۳۹) - (۱۴۰) - (۱۴۱) - (۱۴۲) - (۱۴۳) - (۱۴۴) - (۱۴۵) - (۱۴۶) - (۱۴۷) - (۱۴۸) - (۱۴۹) - (۱۵۰) - (۱۵۱) - (۱۵۲) - (۱۵۳) - (۱۵۴) - (۱۵۵) - (۱۵۶) - (۱۵۷) - (۱۵۸) - (۱۵۹) - (۱۶۰) - (۱۶۱) - (۱۶۲) - (۱۶۳) - (۱۶۴) - (۱۶۵) - (۱۶۶) - (۱۶۷) - (۱۶۸) - (۱۶۹) - (۱۷۰) - (۱۷۱) - (۱۷۲) - (۱۷۳) - (۱۷۴) - (۱۷۵) - (۱۷۶) - (۱۷۷) - (۱۷۸) - (۱۷۹) - (۱۸۰) - (۱۸۱) - (۱۸۲) - (۱۸۳) - (۱۸۴) - (۱۸۵) - (۱۸۶) - (۱۸۷) - (۱۸۸) - (۱۸۹) - (۱۹۰) - (۱۹۱) - (۱۹۲) - (۱۹۳) - (۱۹۴) - (۱۹۵) - (۱۹۶) - (۱۹۷) - (۱۹۸) - (۱۹۹) - (۲۰۰) - (۲۰۱) - (۲۰۲) - (۲۰۳) - (۲۰۴) - (۲۰۵) - (۲۰۶) - (۲۰۷) - (۲۰۸) - (۲۰۹) - (۲۱۰) - (۲۱۱) - (۲۱۲) - (۲۱۳) - (۲۱۴) - (۲۱۵) - (۲۱۶) - (۲۱۷) - (۲۱۸) - (۲۱۹) - (۲۲۰) - (۲۲۱) - (۲۲۲) - (۲۲۳) - (۲۲۴) - (۲۲۵) - (۲۲۶) - (۲۲۷) - (۲۲۸) - (۲۲۹) - (۲۳۰) - (۲۳۱) - (۲۳۲) - (۲۳۳) - (۲۳۴) - (۲۳۵) - (۲۳۶) - (۲۳۷) - (۲۳۸) - (۲۳۹) - (۲۴۰) - (۲۴۱) - (۲۴۲) - (۲۴۳) - (۲۴۴) - (۲۴۵) - (۲۴۶) - (۲۴۷) - (۲۴۸) - (۲۴۹) - (۲۵۰) - (۲۵۱) - (۲۵۲) - (۲۵۳) - (۲۵۴) - (۲۵۵) - (۲۵۶) - (۲۵۷) - (۲۵۸) - (۲۵۹) - (۲۶۰) - (۲۶۱) - (۲۶۲) - (۲۶۳) - (۲۶۴) - (۲۶۵) - (۲۶۶) - (۲۶۷) - (۲۶۸) - (۲۶۹) - (۲۷۰) - (۲۷۱) - (۲۷۲) - (۲۷۳) - (۲۷۴) - (۲۷۵) - (۲۷۶) - (۲۷۷) - (۲۷۸) - (۲۷۹) - (۲۸۰) - (۲۸۱) - (۲۸۲) - (۲۸۳) - (۲۸۴) - (۲۸۵) - (۲۸۶) - (۲۸۷) - (۲۸۸) - (۲۸۹) - (۲۹۰) - (۲۹۱) - (۲۹۲) - (۲۹۳) - (۲۹۴) - (۲۹۵) - (۲۹۶) - (۲۹۷) - (۲۹۸) - (۲۹۹) - (۳۰۰) - (۳۰۱) - (۳۰۲) - (۳۰۳) - (۳۰۴) - (۳۰۵) - (۳۰۶) - (۳۰۷) - (۳۰۸) - (۳۰۹) - (۳۱۰) - (۳۱۱) - (۳۱۲) - (۳۱۳) - (۳۱۴) - (۳۱۵) - (۳۱۶) - (۳۱۷) - (۳۱۸) - (۳۱۹) - (۳۲۰) - (۳۲۱) - (۳۲۲) - (۳۲۳) - (۳۲۴) - (۳۲۵) - (۳۲۶) - (۳۲۷) - (۳۲۸) - (۳۲۹) - (۳۳۰) - (۳۳۱) - (۳۳۲) - (۳۳۳) - (۳۳۴) - (۳۳۵) - (۳۳۶) - (۳۳۷) - (۳۳۸) - (۳۳۹) - (۳۴۰) - (۳۴۱) - (۳۴۲) - (۳۴۳) - (۳۴۴) - (۳۴۵) - (۳۴۶) - (۳۴۷) - (۳۴۸) - (۳۴۹) - (۳۵۰) - (۳۵۱) - (۳۵۲) - (۳۵۳) - (۳۵۴) - (۳۵۵) - (۳۵۶) - (۳۵۷) - (۳۵۸) - (۳۵۹) - (۳۶۰) - (۳۶۱) - (۳۶۲) - (۳۶۳) - (۳۶۴) - (۳۶۵) - (۳۶۶) - (۳۶۷) - (۳۶۸) - (۳۶۹) - (۳۷۰) - (۳۷۱) - (۳۷۲) - (۳۷۳) - (۳۷۴) - (۳۷۵) - (۳۷۶) - (۳۷۷) - (۳۷۸) - (۳۷۹) - (۳۸۰) - (۳۸۱) - (۳۸۲) - (۳۸۳) - (۳۸۴) - (۳۸۵) - (۳۸۶) - (۳۸۷) - (۳۸۸) - (۳۸۹) - (۳۹۰) - (۳۹۱) - (۳۹۲) - (۳۹۳) - (۳۹۴) - (۳۹۵) - (۳۹۶) - (۳۹۷) - (۳۹۸) - (۳۹۹) - (۴۰۰) - (۴۰۱) - (۴۰۲) - (۴۰۳) - (۴۰۴) - (۴۰۵) - (۴۰۶) - (۴۰۷) - (۴۰۸) - (۴۰۹) - (۴۱۰) - (۴۱۱) - (۴۱۲) - (۴۱۳) - (۴۱۴) - (۴۱۵) - (۴۱۶) - (۴۱۷) - (۴۱۸) - (۴۱۹) - (۴۲۰) - (۴۲۱) - (۴۲۲) - (۴۲۳) - (۴۲۴) - (۴۲۵) - (۴۲۶) - (۴۲۷) - (۴۲۸) - (۴۲۹) - (۴۳۰) - (۴۳۱) - (۴۳۲) - (۴۳۳) - (۴۳۴) - (۴۳۵) - (۴۳۶) - (۴۳۷) - (۴۳۸) - (۴۳۹) - (۴۴۰) - (۴۴۱) - (۴۴۲) - (۴۴۳) - (۴۴۴) - (۴۴۵) - (۴۴۶) - (۴۴۷) - (۴۴۸) - (۴۴۹) - (۴۵۰) - (۴۵۱) - (۴۵۲) - (۴۵۳) - (۴۵۴) - (۴۵۵) - (۴۵۶) - (۴۵۷) - (۴۵۸) - (۴۵۹) - (۴۶۰) - (۴۶۱) - (۴۶۲) - (۴۶۳) - (۴۶۴) - (۴۶۵) - (۴۶۶) - (۴۶۷) - (۴۶۸) - (۴۶۹) - (۴۷۰) - (۴۷۱) - (۴۷۲) - (۴۷۳) - (۴۷۴) - (۴۷۵) - (۴۷۶) - (۴۷۷) - (۴۷۸) - (۴۷۹) - (۴۸۰) - (۴۸۱) - (۴۸۲) - (۴۸۳) - (۴۸۴) - (۴۸۵) - (۴۸۶) - (۴۸۷) - (۴۸۸) - (۴۸۹) - (۴۹۰) - (۴۹۱) - (۴۹۲) - (۴۹۳) - (۴۹۴) - (۴۹۵) - (۴۹۶) - (۴۹۷) - (۴۹۸) - (۴۹۹) - (۵۰۰) - (۵۰۱) - (۵۰۲) - (۵۰۳) - (۵۰۴) - (۵۰۵) - (۵۰۶) - (۵۰۷) - (۵۰۸) - (۵۰۹) - (۵۱۰) - (۵۱۱) - (۵۱۲) - (۵۱۳) - (۵۱۴) - (۵۱۵) - (۵۱۶) - (۵۱۷) - (۵۱۸) - (۵۱۹) - (۵۲۰) - (۵۲۱) - (۵۲۲) - (۵۲۳) - (۵۲۴) - (۵۲۵) - (۵۲۶) - (۵۲۷) - (۵۲۸) - (۵۲۹) - (۵۳۰) - (۵۳۱) - (۵۳۲) - (۵۳۳) - (۵۳۴) - (۵۳۵) - (۵۳۶) - (۵۳۷) - (۵۳۸) - (۵۳۹) - (۵۴۰) - (۵۴۱) - (۵۴۲) - (۵۴۳) - (۵۴۴) - (۵۴۵) - (۵۴۶) - (۵۴۷) - (۵۴۸) - (۵۴۹) - (۵۵۰) - (۵۵۱) - (۵۵۲) - (۵۵۳) - (۵۵۴) - (۵۵۵) - (۵۵۶) - (۵۵۷) - (۵۵۸) - (۵۵۹) - (۵۶۰) - (۵۶۱) - (۵۶۲) - (۵۶۳) - (۵۶۴) - (۵۶۵) - (۵۶۶) - (۵۶۷) - (۵۶۸) - (۵۶۹) - (۵۷۰) - (۵۷۱) - (۵۷۲) - (۵۷۳) - (۵۷۴) - (۵۷۵) - (۵۷۶) - (۵۷۷) - (۵۷۸) - (۵۷۹) - (۵۸۰) - (۵۸۱) - (۵۸۲) - (۵۸۳) - (۵۸۴) - (۵۸۵) - (۵۸۶) - (۵۸۷) - (۵۸۸) - (۵۸۹) - (۵۹۰) - (۵۹۱) - (۵۹۲) - (۵۹۳) - (۵۹۴) - (۵۹۵) - (۵۹۶) - (۵۹۷) - (۵۹۸) - (۵۹۹) - (۶۰۰) - (۶۰۱) - (۶۰۲) - (۶۰۳) - (۶۰۴) - (۶۰۵) - (۶۰۶) - (۶۰۷) - (۶۰۸) - (۶۰۹) - (۶۱۰) - (۶۱۱) - (۶۱۲) - (۶۱۳) - (۶۱۴) - (۶۱۵) - (۶۱۶) - (۶۱۷) - (۶۱۸) - (۶۱۹) - (۶۲۰) - (۶۲۱) - (۶۲۲) - (۶۲۳) - (۶۲۴) - (۶۲۵) - (۶۲۶) - (۶۲۷) - (۶۲۸) - (۶۲۹) - (۶۳۰) - (۶۳۱) - (۶۳۲) - (۶۳۳) - (۶۳۴) - (۶۳۵) - (۶۳۶) - (۶۳۷) - (۶۳۸) - (۶۳۹) - (۶۴۰) - (۶۴۱) - (۶۴۲) - (۶۴۳) - (۶۴۴) - (۶۴۵) - (۶۴۶) - (۶۴۷) - (۶۴۸) - (۶۴۹) - (۶۵۰) - (۶۵۱) - (۶۵۲) - (۶۵۳) - (۶۵۴) - (۶۵۵) - (۶۵۶) - (۶۵۷) - (۶۵۸) - (۶۵۹) - (۶۶۰) - (۶۶۱) - (۶۶۲) - (۶۶۳) - (۶۶۴) - (۶۶۵) - (۶۶۶) - (۶۶۷) - (۶۶۸) - (۶۶۹) - (۶۷۰) - (۶۷۱) - (۶۷۲) - (۶۷۳) - (۶۷۴) - (۶۷۵) - (۶۷۶) - (۶۷۷) - (۶۷۸) - (۶۷۹) - (۶۸۰) - (۶۸۱) - (۶۸۲) - (۶۸۳) - (۶۸۴) - (۶۸۵) - (۶۸۶) - (۶۸۷) - (۶۸۸) - (۶۸۹) - (۶۹۰) - (۶۹۱) - (۶۹۲) - (۶۹۳) - (۶۹۴) - (۶۹۵) - (۶۹۶) - (۶۹۷) - (۶۹۸) - (۶۹۹) - (۷۰۰) - (۷۰۱) - (۷۰۲) - (۷۰۳) - (۷۰۴) - (۷۰۵) - (۷۰۶) - (۷۰۷) - (۷۰۸) - (۷۰۹) - (۷۱۰) - (۷۱۱) - (۷۱۲) - (۷۱۳) - (۷۱۴) - (۷۱۵) - (۷۱۶) - (۷۱۷) - (۷۱۸) - (۷۱۹) - (۷۲۰) - (۷۲۱) - (۷۲۲) - (۷۲۳) - (۷۲۴) - (۷۲۵) - (۷۲۶) - (۷۲۷) - (۷۲۸) - (۷۲۹) - (۷۳۰) - (۷۳۱) - (۷۳۲) - (۷۳۳) - (۷۳۴) - (۷۳۵) - (۷۳۶) - (۷۳۷) - (۷۳۸) - (۷۳۹) - (۷۴۰) - (۷۴۱) - (۷۴۲) - (۷۴۳) - (۷۴۴) - (۷۴۵) - (۷۴۶) - (۷۴۷) - (۷۴۸) - (۷۴۹) - (۷۵۰) - (۷۵۱) - (۷۵۲) - (۷۵۳) - (۷۵۴) - (۷۵۵) - (۷۵۶) - (۷۵۷) - (۷۵۸) - (۷۵۹) - (۷۶۰) - (۷۶۱) - (۷۶۲) - (۷۶۳) - (۷۶۴) - (۷۶۵) - (۷۶۶) - (۷۶۷) - (۷۶۸) - (۷۶۹) - (۷۷۰) - (۷۷۱) - (۷۷۲) - (۷۷۳) - (۷۷۴) - (۷۷۵) - (۷۷۶) - (۷۷۷) - (۷۷۸) - (۷۷۹) - (۷۸۰) - (۷۸۱) - (۷۸۲) - (۷۸۳) - (۷۸۴) - (۷۸۵) - (۷۸۶) - (۷۸۷) - (۷۸۸) - (۷۸۹) - (۷۹۰) - (۷۹۱) - (۷۹۲) - (۷۹۳) - (۷۹۴) - (۷۹۵) - (۷۹۶) - (۷۹۷) - (۷۹۸) - (۷۹۹) - (۸۰۰) - (۸۰۱) - (۸۰۲) - (۸۰۳) - (۸۰۴) - (۸۰۵) - (۸۰۶) - (۸۰۷) - (۸۰۸) - (۸۰۹) - (۸۱۰) - (۸۱۱) - (۸۱۲) - (۸۱۳) - (۸۱۴) - (۸۱۵) - (۸۱۶) - (۸۱۷) - (۸۱۸) - (۸۱۹) - (۸۲۰) - (۸۲۱) - (۸۲۲) - (۸۲۳) - (۸۲۴) - (۸۲۵) - (۸۲۶) - (۸۲۷) - (۸۲۸) - (۸۲۹) - (۸۳۰) - (۸۳۱) - (۸۳۲) - (۸۳۳) - (۸۳۴) - (۸۳۵) - (۸۳۶) - (۸۳۷) - (۸۳۸) - (۸۳۹) - (۸۴۰) - (۸۴۱) - (۸۴۲) - (۸۴۳) - (۸۴۴) - (۸۴۵) - (۸۴۶) - (۸۴۷) - (۸۴۸) - (۸۴۹) - (۸۵۰) - (۸۵۱) - (۸۵۲) - (۸۵۳) - (۸۵۴) - (۸۵۵) - (۸۵۶) - (۸۵۷) - (۸۵۸) - (۸۵۹) - (۸۶۰) - (۸۶۱) - (۸۶۲) - (۸۶۳) - (۸۶۴) - (۸۶۵) - (۸۶۶) - (۸۶۷) - (۸۶۸) - (۸۶۹) - (۸۷۰) - (۸۷۱) - (۸۷۲) - (۸۷۳) - (۸۷۴) - (۸۷۵) - (۸۷۶) - (۸۷۷) - (۸۷۸) - (۸۷۹) - (۸۸۰) - (۸۸۱) - (۸۸۲) - (۸۸۳) - (۸۸۴) - (۸۸۵) - (۸۸۶) - (۸۸۷) - (۸۸۸) - (۸۸۹) - (۸۹۰) - (۸۹۱) - (۸۹۲) - (۸۹۳) - (۸۹۴) - (۸۹۵) - (۸۹۶) - (۸۹۷) - (۸۹۸) - (۸۹۹) - (۹۰۰) - (۹۰۱) - (۹۰۲) - (۹۰۳) - (۹۰۴) - (۹۰۵) - (۹۰۶) - (۹۰۷) - (۹۰۸) - (۹۰۹) - (۹۱۰) - (۹۱۱) - (۹۱۲) - (۹۱۳) - (۹۱۴) - (۹۱۵) - (۹۱۶) - (۹۱۷) - (۹۱۸) - (۹۱۹) - (۹۲۰) - (۹۲۱) - (۹۲۲) - (۹۲۳) - (۹۲۴) - (۹۲۵) - (۹۲۶) - (۹۲۷) - (۹۲۸) - (۹۲۹) - (۹۳۰) - (۹۳۱) - (۹۳۲) - (۹۳۳) - (۹۳۴) - (۹۳۵) - (۹۳۶) - (۹۳۷) - (۹۳۸) - (۹۳۹) - (۹۴۰) - (۹۴۱) - (۹۴۲) - (۹۴۳) - (۹۴۴) - (۹۴۵) - (۹۴۶) - (۹۴۷) - (۹۴۸) - (۹۴۹) - (۹۵۰) - (۹۵۱) - (۹۵۲) - (۹۵۳) - (۹۵۴) - (۹۵۵) - (۹۵۶) - (۹۵۷) - (۹۵۸) - (۹۵۹) - (۹۶۰) - (۹۶۱) - (۹۶۲) - (۹۶۳) - (۹۶۴) - (۹۶۵) - (۹۶۶) - (۹۶۷) - (۹۶۸) - (۹۶۹) - (۹۷۰) - (۹۷۱) - (۹۷۲) - (۹۷۳) - (۹۷۴) - (۹۷۵) - (۹۷۶) - (۹۷۷) - (۹۷۸) - (۹۷۹) - (۹۸۰) - (۹۸۱) - (۹۸۲) - (۹۸۳) - (۹۸۴) - (۹۸۵) - (۹۸۶) - (۹۸۷) - (۹۸۸) - (۹۸۹) - (۹۹۰) - (۹۹۱) - (۹۹۲) - (۹۹۳) - (۹۹۴) - (۹۹۵) - (۹۹۶) - (۹۹۷) - (۹۹۸) - (۹۹۹) - (۱۰۰۰) - (۱۰۰۱) - (۱۰۰۲) - (۱۰۰۳) - (۱۰۰۴) - (۱۰۰۵) - (۱۰۰۶) - (۱۰۰۷) - (۱۰۰۸) - (۱۰۰۹) - (۱۰۱۰) - (۱۰۱۱) - (۱۰۱۲) - (۱۰۱۳) - (۱۰۱۴) - (۱۰۱۵) - (۱۰۱۶) - (۱۰۱۷) - (۱۰۱۸) - (۱۰۱۹) - (۱۰۲۰) - (۱۰۲۱) - (۱۰۲۲) - (۱۰۲۳) - (۱۰۲۴) - (۱۰۲۵) - (۱۰۲۶) - (۱۰۲۷) - (۱۰۲۸) - (۱۰۲۹) - (۱۰۳۰) - (۱۰۳۱) - (۱۰۳۲) - (۱۰۳۳) - (۱۰۳۴) - (۱۰۳۵) - (۱۰۳۶) - (۱۰۳۷) - (۱۰۳۸) - (۱۰۳۹) - (۱۰۴۰) - (۱۰۴۱) - (۱۰۴۲) - (۱۰۴۳) - (۱۰۴۴) - (۱۰۴۵) - (۱۰۴۶) - (۱۰۴۷) - (۱۰۴۸) - (۱۰۴۹) - (۱۰۵۰) - (۱۰۵۱) - (۱۰۵۲) - (۱۰۵۳) - (۱۰۵۴) - (۱۰۵۵) - (۱۰۵۶) - (۱۰۵۷) - (۱۰۵۸) - (۱۰۵۹) - (۱۰۶۰) - (۱۰۶۱) - (۱۰۶۲) - (۱۰۶۳) - (۱۰۶۴) - (۱۰۶۵) - (۱۰۶۶) - (۱۰۶۷) - (۱۰۶۸) - (۱۰۶۹) - (۱۰۷۰) - (۱۰۷۱) - (۱۰۷۲) - (۱۰۷۳) - (۱۰۷۴) - (۱۰۷۵) - (۱۰۷۶) - (۱۰۷۷) - (۱۰۷۸) - (۱۰۷۹) - (۱۰۸۰) - (۱۰۸۱) - (۱۰۸۲) - (۱۰۸۳) - (۱۰۸۴) - (۱۰۸۵) - (۱۰۸۶) - (۱۰۸۷) - (۱۰۸۸) - (۱۰۸۹) - (۱۰۹۰) - (۱۰۹۱) - (۱۰۹۲) - (۱۰۹۳) - (۱۰۹۴) - (۱۰۹۵) - (۱۰۹۶) - (۱۰۹۷) - (۱۰۹۸) - (۱۰۹۹) - (۱۱۰۰) - (۱۱۰۱) - (۱۱۰۲) - (۱۱۰۳) - (۱۱۰۴) - (۱۱۰۵) - (۱۱۰۶) - (۱۱۰۷) - (۱۱۰۸) - (۱۱۰۹) - (۱۱۱۰) - (۱۱۱۱) - (۱۱۱۲) - (۱۱۱۳) - (۱۱۱۴) - (۱۱۱۵) - (۱۱۱۶) - (۱۱۱۷) - (۱۱۱۸) - (۱۱۱۹) - (۱۱۲۰) - (۱۱۲۱) - (۱۱۲۲) - (۱۱۲۳) - (۱۱۲۴) - (۱۱۲۵) - (۱۱۲۶) - (۱۱۲۷) - (۱۱۲۸) - (۱۱۲۹) - (۱۱۳۰) - (۱۱۳۱) - (۱۱۳۲) - (۱۱۳۳) - (۱۱۳۴) - (۱۱۳۵) - (۱۱۳۶) - (۱۱۳۷) - (۱۱۳۸) - (۱۱۳۹) - (۱۱۴۰) - (۱۱۴۱) - (۱۱۴۲) - (۱۱۴۳) - (۱۱۴۴) - (۱۱۴۵) - (۱۱۴۶) - (۱۱۴۷) - (۱۱۴۸) - (۱۱۴۹) - (۱۱۵۰) - (۱۱۵۱) - (۱۱۵۲) - (۱۱۵۳) - (۱۱۵۴) - (۱۱۵۵) - (۱۱۵۶) - (۱۱۵۷) - (۱۱۵۸) - (۱۱۵۹) - (۱۱۶۰) - (۱۱۶۱) - (۱۱۶۲) - (۱۱۶۳) - (۱۱۶۴) - (۱۱۶۵) - (۱۱۶۶) - (۱۱۶۷) - (۱۱۶۸) - (۱۱۶۹) - (۱۱۷۰) - (۱۱۷۱) - (۱۱۷۲) - (۱۱۷۳) - (۱۱۷۴) - (۱۱۷۵) - (۱۱۷۶) - (۱۱۷۷) - (۱۱۷۸) - (۱۱۷۹) - (۱۱۸۰) - (۱۱۸۱) - (۱۱۸۲) - (۱۱۸۳) - (۱۱۸۴) - (۱۱۸۵) - (۱۱۸۶) - (۱۱۸۷) - (۱۱۸۸) - (۱۱۸۹) - (۱۱۹۰) - (۱۱۹۱) - (۱۱۹۲) - (۱۱۹۳) - (۱۱۹۴) - (۱۱۹۵) - (۱۱۹۶) - (۱۱۹۷) - (۱۱۹۸) - (۱۱۹۹) - (۱۲۰۰) - (۱۲۰۱) - (۱۲۰۲) - (۱۲۰۳) - (۱۲۰۴) - (۱۲۰۵) - (۱۲۰۶) - (۱۲۰۷) - (۱۲۰۸) - (۱۲۰۹) - (۱۲۱۰) - (۱۲۱۱) - (۱۲۱۲) - (۱۲۱۳) - (۱۲۱۴) - (۱۲۱۵) - (۱۲۱۶) - (۱۲۱۷) - (۱۲۱۸) - (۱۲۱۹) - (۱۲۲۰) - (۱۲۲۱) - (۱۲۲۲) - (۱۲۲۳) - (

واللہ اعلم بالصواب - ۱۰۷ - مذہب (۱) مذہب، خدا ہی بہتر جانتا ہے۔ خدا کو خوب معلوم ہے۔

والہ (۱) رواہ (۱) رواہ، صفت، شیدا، فریفتہ، معنون، عاشق فارسی والوں نے لام کی تہ سے بر وزن لام استعمال کیا۔

والمر وشیدا (۱) - ۱۰۸ - صفت، حد سے زیادہ فریفتہ بہت زیادہ شیدا والہانہ (۱) - ۱۰۹ - لہ (۱) لہ، صفت، شیطانی کے انداز سے عاشقانہ انداز سے۔

والی (۱) - ۱۱۰ - صفت، والا کی تائینت۔

والی (۱) - ۱۱۱ - مذہب، مالک، آقا، سردار، حاکم، بادشاہ، دوست، شہنشاہ، حمایتی، مددگار، مربی، سرپرست، محافظ، نگہبان۔

۵۵، گورنر، صوبے دار، حاکم صوبہ، جمع، والیان۔

والی ملک (۱) - ۱۱۲ - مذہب، ملک کا حکمران، بادشاہ۔

والی وارث (۱) - ۱۱۳ - مذہب، حمایتی، مددگار، پشت پناہ، سرپرست۔

وامم (۱) - ۱۱۴ - مذہب، قرین، اوصار۔

واشقی (۱) - ۱۱۵ - مذہب، عرب کی معشوقہ عذرا کے عاشق کا نام۔

وان (۱) - ۱۱۶ - لاحقہ، رکھنے والا، والا، صاحب، مالک، جیسے بھاگ وان، کوچ وان۔

وان (۱) - ۱۱۷ - لاحقہ، اعداد کے بعد نسبت ظاہر کرنے کیلئے جیسے پنچواں آٹھواں (۱) وہاں کا مختف۔

وانر (۱) - ۱۱۸ - مذہب، بند۔

وانی (۱) - ۱۱۹ - مذہب، (۱) اس (۱) صحت، (۲) آواز، صدا (۳) بول، زبان، گفتگو، بانی، تعریف ستائش۔

واؤچر (۱) - ۱۲۰ - (Voucher) دواؤ، چر، انگ، (۱) مذہب، بیچک فرد حساب، تصدیق ادائیگی رسید۔

وادہی (۱) - ۱۲۱ - مذہب، دواؤ، جو کسی لفظ یا عبارت کو خاص کرنے یا ردیافت لفظی کے اظہار کے لیے آتے ہیں، " (۱) انگ، (۱) انگ، (Inverted Commas)

واہ (۱) - ۱۲۲ - مذہب، کلمہ تحسین، و آفرین، ماشا اللہ! سبحان اللہ! آفرین (۱) شہاباش! مرجبا! کیا بات ہے! (۱) مذہب، طنز، (۱) کیا خوب چیز خوش و حیرت یا تعجب، اسے کیسے (۱) فوسفوس، ہائے (۱) کسی کام سے انکار، کیوں؟

واہ پیر علیا، پکائی تھی کھیر ہو گیا دلیا (۱) - ۱۲۳ - مثل، بنا بنا یا کام بگڑ گیا، اس موقع پر کہتے ہیں، جب کسی کی بددعا کی وجہ سے کام بنتے بنتے بگڑ جائے۔

واہ رے (۱) - ۱۲۴ - کلمہ تعجب، تعجب، تعریف، طنز، نفرت اور اخبار افسوس کا کلمہ۔

واہ رے میں (۱) - ۱۲۵ - کلمہ تحسین، اپنے کسی فعل پر فخر کرنا، میرا کیا کہنا، میں بھی بڑی چیز ہوں، میری کیا بات ہے۔

واہ کرنا (۱) - ۱۲۶ - محاورہ، تعریف کرنا۔

واہ کیا بات ہے (۱) - ۱۲۷ - کلمہ تعجب، واہ کیا کہنا، طنز اور زور صیغہ

کے لیے کہا جاتا ہے۔

واہ میاں کالے، خوب رنگ نکالے (۱) - ۱۲۸ - مثل، کسی کا مکروہ فریب ظاہر ہونے پر کہتے ہیں۔

واہ واہ (۱) - ۱۲۹ - واہ (۱) کلمہ تحسین، سبحان اللہ، شہاباش، مرزا، حیرت، تعجب اور طنز کے موقع پر بھی بولتے ہیں۔

واہ واہ کرنا (۱) - ۱۳۰ - محاورہ، تعریف کرنا، داد دینا، سراہنا۔

واہ واہ کر گٹ کا کچھ تانا شاہ (۱) - ۱۳۱ - مثل، اپنی یا معمولی آدمی کے خرابے دکھانے کے وقت کہتے ہیں۔

واہ واہ مچنا (۱) - ۱۳۲ - محاورہ، نام ہونا، تعریف ہونا، دھوم مچنا۔

واہ واہ میاں ہانکے، تیرے گلے میں سمو سوٹا لگے (۱) - ۱۳۳ - مثل، اس غریب شخص پر طنز کرتے وقت کہتے ہیں جو بے سرد سامانی میں بھی پھیلا بیٹنے کی کوشش کرے۔

واہیب (۱) - ۱۳۴ - صفت، بخشنے والا، دینے والا، بہر کرنے والا (۱) اللہ تعالیٰ کا ایک صفاتی نام۔

واہیب الحاحات (۱) - ۱۳۵ - صفت، حاجتیں پوری کرنے والا، مراد خدا کے تعالیٰ۔

واہیب العطا (۱) - ۱۳۶ - صفت، عطا دینے والا، خدا کے تعالیٰ۔

واہیب بے منت (۱) - ۱۳۷ - صفت، بغیر احسان بتائے دینے والا۔

واہیمہ (۱) - ۱۳۸ - مذہب، (۱) قوت تصور، وہ قوت میں سے ایسی باریکیاں اور جزئیات معلوم ہوتی ہیں، جن کا تعلق محسوسات سے ہے۔

واہی (۱) - ۱۳۹ - صفت، بے بودہ، لغو، بے مغز، فضول (۱) ادارہ، ناکارہ، گمراہ (۳) بودا، کم زور، ناتوان، ضعیف، ناپاقت، ذمہ، سست، کابل وجود۔

واہی تباہی (۱) - ۱۴۰ - صفت، فضول، لغو، بے بودہ، ناکارہ، ادارہ، دہیدہ (۳) خستہ حال، پریشان حال، لپا، بد معاش، لنگھا۔

واہی تباہی بکنا (۱) - ۱۴۱ - محاورہ، بیبودہ باتیں کرنا، گالیاں دینا، فضول باتیں کرنا۔

واہی تباہی پھرنانا (۱) - ۱۴۲ - محاورہ، پھرنانا، خراب نسبت اور پریشان حال پھرنانا۔

واہی بھجنا (۱) - ۱۴۳ - محاورہ، لغو جانا۔

واہی ہو جانا (۱) - ۱۴۴ - محاورہ، بگڑ جانا، آوارگی اختیار کر لینا، برگرداں پھرنانا (۱) پاگل ہو جانا۔

واہی ہے (۱) - ۱۴۵ - بول چال، بے وقوف ہے، جاہل ہے، سوداگی ہے، پاگل ہے۔

واہستانی (۱) - ۱۴۶ - صفت، (۱) بات، (۲) صفت، (۱) صفت، (۱) بے بودہ اور لغو باتیں، فضول باتیں، ادب باشی، خرافات۔

واٹ پاپیر (۱) - ۱۴۷ - (Whitepaper) (۱) وارنٹ، بے پیر، (۱) انگ، (۱) مذہب، قریظاں، بیض، وہ اعلان جو حکومت یا جماعت کی طرف سے اطلاع عام کے لیے شائع کیا جائے۔

وزنی۔ اوزنی، ۱۶ ف۔ صفت، ۱۱، بھاری۔ بوجھل، ۲، سنجیدہ، ٹھوس۔
۳، بادقت۔
وزیر۔ اوزیر، ۱۷، مذ، دیوان۔ مدارالمہام، ۲، منتزی، ۲، شطرنج کا ایک
تہرہ۔ جمع، اوزراد۔
وزیر اعظم۔ ۱۷، مذ، مرکزی حکومت کا سب سے بڑا وزیر۔ پردھان منتری
پرائم منسٹر۔
وزیر اعلیٰ۔ ۱۷، مذ، صوبائی حکومت کا سب سے بڑا وزیر۔ چیف منسٹر۔
وزیر سے پیشی شہر یا رے جنال۔ ۱۷، ف، مثل، جیسے وزیر ویسے بادشاہ۔
انسر اور ماتحت دونوں نالائق۔
وزیری۔ ۱۷، ذی، ری، ان، ۱۸، مذ، وزیر کا عہدہ۔ وزارت، ۱۲، (مذ)
پٹھانوں کے ایک قبیلے کا نام۔

وزنا کیولر۔ (Vernacular) اوزنا۔ ک۔ یو۔ ل۔ انگ۔ ۱۸، صفت،
دلیسی، بلکی، مقامی، ۱۲، مذ، دلیسی زبان۔
ورم۔ ۱۷، مذ، ۱۸، مذ، بیماری یا چوٹ سے جسم کے کسی حصے کا پھل
جانا۔ سوجن۔ آنا۔
ورم آنا۔ ورم کر جانا۔ ورم ہو جانا۔ ۱۷، محاورہ، سوچ جانا۔ سوجن
سب چڑھ جانا۔
ورم آ کر جانا۔ ۱۷، محاورہ، ورم جانا رہنا۔ سوجن جاتی رہنا۔
ورن۔ ۱۷، مذ، رنگ، ٹیبل، ۱۳، لباس، ۱۴، صورت، ۱۵، قسم۔
ورنہ۔ ۱۷، مذ، حرف شرط، ۱۸، مذ، اور نہیں تو۔
ورود۔ ۱۷، مذ، ۱۸، مذ، آنا۔ اندر آنا۔ وارد ہونا۔ پہنچنا۔
ورود پانا۔ ۱۷، محاورہ، پہنچنا۔
ورودھ۔ ۱۷، مذ، ۱۸، مذ، مخالفت، ۱۹، مذ، مزاحمت، رکاوٹ، ۲۰، دشمنی

وس

وسادہ۔ ۱۷، مذ، ۱۸، مذ، یکہ مسند جمع، ۱۹، مساند۔
وسار۔ ۱۷، مذ، ۱۸، مذ، پھیر۔ سانہان۔ اُسانا۔
وساطت۔ ۱۷، مذ، ۱۸، مذ، وسیلہ، ذریعہ۔ واسطہ۔
وساوس۔ ۱۷، مذ، ۱۸، مذ، وسواس کی جمع۔ دوسرے اندیشے۔
وسائد۔ ۱۷، مذ، ۱۸، مذ، وسادہ کی جمع۔ مسندیں۔
وسائط۔ ۱۷، مذ، ۱۸، مذ، واسطہ کی جمع، ۱۹، واسطے، ۲۰،
تعلقات، ۲۱، ذریعے۔

وسائل۔ ۱۷، مذ، ۱۸، مذ، وسیلہ کی جمع۔ وسیلے، واسطے۔
وسط۔ ۱۷، مذ، ۱۸، مذ، بیچ، درمیان، قلب، مرکز، ۲۰، وہ چیز جو جسمات یا
درجے میں درمیان ہو، ۲۱، کسی چیز کا ٹھیک بیچ جو اسے برابر کے
دو حصوں میں تقسیم کرے، جمع، واسطہ۔

وسطانی۔ ۱۷، صفت، ۱۸، درمیان، ۱۹، مثل کی جماعتیں۔
وسطی۔ ۱۷، مذ، ۱۸، صفت، بیچ کا۔ درمیان کا۔ درمیانی۔
وسطی۔ ۱۷، مذ، ۱۸، صفت، اوسط کا موٹ۔ میانہ۔ اوسط درجے کا۔
بیچ کا، ۱۸، صفت، بیچ کی انگلی۔

وسیع۔ ۱۷، مذ، ۱۸، صفت، چوڑائی۔ پھیلاؤ۔ فراخی۔
وسعت۔ ۱۷، مذ، ۱۸، صفت، ۱۹، گنجائش۔ سائی، چوڑائی۔
کشادگی۔ پھیلاؤ۔

وسعت دینا۔ ۱۷، محاورہ، بڑھانا، زیادہ کرنا، کھلا کرنا۔
وسکی۔ (Whisky) اوس کی، انگ، ۱۸، مذ، ایک قسم کی شراب۔
وسل۔ (Whistle) اوسل، انگ، ۱۸، مذ، ٹیٹی۔
وسل بجانا۔ ۱۷، ذی، دینا، ۱۸، صفت، مرکب، کوئی اشارہ دینے کی غرض
سے بیٹھی بجانا۔

وسمہ۔ ۱۷، مذ، ۱۸، مذ، نیل کے پتے جن سے خضاب تیار کیا
جاتا ہے۔

وز

وزارت۔ ۱۷، مذ، ۱۸، مذ، وزیر کا عہدہ۔ مدارالمہام، ۲،
وزیر کا کام، ۳، وزیر کا دفتر، بفتح اولیٰ نیکسر آبل۔
وزیر۔ ۱۷، مذ، ۱۸، مذ، وہ شخص جو ملاقات یا
مہمانی کے لیے آئے۔

وزیر نوبک (Visitors Book) انگ، ۱۸، مذ، وہ چیز جس میں آنے
والوں یا مہمانوں کے ناموں سے دستخط لگاتے ہیں۔
وزیرنگ کارڈ۔ (Vistingcard) اوزیرنگ، ۱۸، مذ، کارڈ
انگ، ۱۸، مذ، وہ کارڈ جس پر ملاقات کرنے والے کا نام درج
ہوتا ہے۔

وزیر اور۔ ۱۷، مذ، ۱۸، مذ، وزیر کی جمع۔
وزن۔ ۱۷، مذ، ۱۸، مذ، تول، بواج، ۱۹، انمازہ، ۲۰، عزت، قدر، وقعت
۲۱، بوجھ، بار، ۲۲، مقدار، ۲۳، پیمانہ، ۲۴، علم و عروض میں شعر کی جگہ۔
۲۵، سنجیدگی، ستائش، جمع، اوزن۔

وزن دار۔ ۱۷، مذ، ۱۸، صفت، بوجھل، بھاری، ۲۰، بادقت۔
وزن رکھنا۔ ۱۷، مذ، ۱۸، محاورہ، ۱۹، بھاری ہونا، ۲۰، بادقت ہونا
وزن کرنا۔ ۱۷، صفت، مرکب، تولنا، جانچنا۔
وزنہ۔ ۱۷، مذ، ۱۸، مذ، لوسے یا پتھر کی جی، کوئی وہ چیز جو کاغذ کو
دبانے کے لیے اس پر رکھی جائے، پیپر ویٹ (Paper Weight)

و طیفقہ - رُو غلی، ۶، ۳، ۱۰ - مذ، روزینہ - پنشن - تنخواہ - در ماہ ۲۰،
 وہ رقم جو نادار طالب علم کو اس کے تعلیمی اخراجات کے لیے دیا
 جائے ۲۳، مس خدمات کے سلسلے میں عطا کی ہوئی جاگہ وغیرہ وہم، کئی
 ڈعا جو روزانہ پڑھی جائے ۵۱، کسی بات کی رٹ ۹۹، وہ کام جو روزانہ
 پابندی سے کیا جائے -
 و طیفقہ بھانسا، ۱ - تحقیر، ۱ - و طیفقہ پڑھنا -
 و طیفقہ خوار، ۱ - ۷، ۱ - مذ، و طیفقہ لینے والا ۲۲، پنشن پانے والا -
 و طیفقہ کرنا، ۱۱ - محاورہ، و طیفقہ پڑھنا -

وضع داری، ۱ - ۷، ۱ - مذ، ایک دفعہ اختیار کی ہوئی وضع کو مرتے دم
 تک نباہنا ۲۲، بائیں طرح داری جو بصورتی ۳۱، سلیقہ ڈھنگ طریقہ -
 وضع قوانین، ۱ - ۷، ۱ - مذ، قانون بنانا قانون سازی کرنا -
 وضع قطع، ۱ - ۷، ۱ - مذ، شکل و صورت -
 وضع کرنا، ۱۶ - محاورہ، جو لے لینا، منہا کر دینا، کاٹ لینا حساب میں
 لکھ لینا ۲۲، اختراع کرنا، ایجاد کرنا -
 وضع ملنا، ۱۶ - محاورہ، انداز ملنا، طرز ملنا -
 وضع میں فرق آنا، ۱۶ - محاورہ، انداز اور عادت میں فرق آنا -
 وضع نہا سنا، ۱۶ - محاورہ، انداز اور طرز میں فرق نہ آنے دینا -
 وضع ہونا، ۱ - ۱ - محاورہ، مجرا ہونا، گھٹنا - منہا ہونا - حساب میں لگنا - ایجاد
 ہونا، لگنا -

و - ع

وعدہ، ۱ - ۷، ۱ - مذ، اقرار، قول و قرار - عہد و پیمانہ ۲۱، ملاقات
 کا نتیجہ ۲۳، رقم کی ادائیگی کے لیے ایک مدت مقرر کرنا ۵۱، مرنے کا
 دن - موت کا وقت -
 وعدہ آج پہنچنا، وعدہ آج مانا، ۱۶ - محاورہ، موت کا وقت آج ماننا، لگنا
 ختم ہونا -
 وعدہ کینا کرنا، ۱۶ - محاورہ، وعدہ پورا کرنا، قول پورا کرنا -
 وعدہ برابر آنا دیکھنا، ۱۶ - محاورہ، زندگی کی گھٹیاں پوری ہونا، موت آنا -
 وعدہ پر قائم رہنا، ۱۶ - محاورہ، قول پر قائم رہنا، جو کھنا اس پر قائم رہنا -
 وعدہ ٹالنا، وعدہ پورا کرنے سے بچنا، چیلے حوالے کرنا -
 وعدہ ملنا، ۱۶ - محاورہ، وعدہ پورا نہ ہونا - وعدے کی مدت گزر جانا -
 وعدہ ٹھہرنا، ۱۶ - محاورہ، قول و قرار ہونا -
 وعدہ خلاف دشمنی، ۱ - ۷، ۱ - مذ، جو وعدہ پورا نہ کرے
 جو وعدے سے بچ جائے -
 وعدہ خلافی، وعدہ شکنی، ۱ - ۷، ۱ - مذ، وعدہ نہ پھیلنا، قول و
 قرار سے بچ جانا -

و وضو، ۱ - ۷، ۱ - مذ، نماز کے لیے جسم کے خاص خاص اعضا کو پانی سے دھونا -
 وضو تازہ کرنا، ۱۶ - محاورہ، بارہنو ہوتے ہوئے بھی دوبارہ وضو کرنا -
 وضو ٹوٹنا، ۱۶ - محاورہ، وضو جاتا رہنا، جہارت قائم نہ کرنا -
 وضو ٹھنڈے ہونا - وضو ڈھیلے ہونا، ۱۶ - محاورہ، بہت پست
 ہونا، نیت بدل جانا -
 وضو ج - رُو وضو، ۱ - ۷، ۱ - مذ، وضاحت - صفائی ۲۲، خوب، گواہی
 ۳۱، اظہار، ظہور -
 وضیح - رُو وضیح، ۱ - ۷، ۱ - مذ، صاف، کھینچ، بیچ - فرودیاہ -
 وضیح و شریفین، ۱ - ۷، ۱ - مذ، صاف، ادنیٰ اور اعلیٰ، کھینچ اور شریف -
 وضییمہ - رُو ضمی، ۱ - ۷، ۱ - مذ، ماکی ضیافت - گمنی کا کھانا (دلیہ
 کی ضد)

و - ط

وطن، ۱ - ۷، ۱ - مذ، پیدا ہونے اور رہنے کی جگہ ۲۲، دیس - اپنا ملک
 جنم بھومی - مجمع اوطان -
 وطن اختیار کرنا، ۱۶ - محل مرکب، کسی ملک کا شہری بننا ۲۲، اپنے شہر کو
 چھوڑ کر کسی اور شہر میں مستقل طور پر رہنے لگنا -
 وطن چھوٹنا، ۱۶ - محاورہ، عزیز الوطن ہونا -
 وطن مائلوف، ۱ - ۷، ۱ - مذ، وہ جگہ جہاں رہنے بسنے کی عادت ہو -
 وہ جگہ جس سے لگاؤ اور انس ہو -
 وطنی، ۱ - ۷، ۱ - مذ، ہم وطن، ایک دیس کا، وطن سے منسوب -
 وطنی، ۱ - ۷، ۱ - مذ، عورت سے صحبت کرنا، جماع کرنا -

وعدہ قصب در میان، ۱ - ۷، ۱ - مذ، اگلے دن کا وعدہ - کل کا وعدہ -
 وعدہ فراموش، ۱ - ۷، ۱ - مذ، جو وعدہ کر کے بھول جائے -
 وعدہ کرنا، ۱۶ - محاورہ، اقرار کرنا، قول دینا، زبان دینا -
 وعدہ لینا، ۱۶ - محاورہ، عہد لینا، قول لینا -
 وعدہ و عہد، ۱ - ۷، ۱ - مذ، ٹھیل ٹھول، چیلے حوالے، آج کل
 آج کل -
 وعدہ و عہد کرنا، ۱۶ - محاورہ، جوڑے وعدے کرنا، ٹالنا
 وعدہ وفا، وعدے کا سچا، ۱ - ۷، ۱ - مذ، بات کا پورا، جو وعدہ کر کے
 پورا کرے - جو قول و قرار چھانے -
 وعدہ وفا کرنا، ۱۶ - محاورہ، عہد کرنا، وعدہ پورا کرنا -
 وعدے پر چینا، ۱۶ - محاورہ، وعدہ پورا ہونے کی توقع لکھنا -
 وعدے پر رہنا، قول نہا سنا، وعدے سے نہ بچنا، عہد پر قائم رہنا -
 وعدے سے دم زیادہ نہ کم - موت کا وقت معترضے - ٹالنے

وطن، ۱ - ۷، ۱ - مذ، پیدا ہونے اور رہنے کی جگہ ۲۲، دیس - اپنا ملک
 جنم بھومی - مجمع اوطان -
 وطن اختیار کرنا، ۱۶ - محل مرکب، کسی ملک کا شہری بننا ۲۲، اپنے شہر کو
 چھوڑ کر کسی اور شہر میں مستقل طور پر رہنے لگنا -
 وطن چھوٹنا، ۱۶ - محاورہ، عزیز الوطن ہونا -
 وطن مائلوف، ۱ - ۷، ۱ - مذ، وہ جگہ جہاں رہنے بسنے کی عادت ہو -
 وہ جگہ جس سے لگاؤ اور انس ہو -
 وطنی، ۱ - ۷، ۱ - مذ، ہم وطن، ایک دیس کا، وطن سے منسوب -
 وطنی، ۱ - ۷، ۱ - مذ، عورت سے صحبت کرنا، جماع کرنا -

و - ظ

وظائف، رُو ظا، ۱ - ۷، ۱ - مذ، وظیفہ کی جمع -

وَقُودٌ - (وُ، قُودٌ) ۱۔ مذمہ و فذک جمع۔
 وَقُورٌ - (وُ، قُورٌ) ۱۔ مذمہ افرات۔ بہتات۔ زیادتی۔ کثرت۔
 وَقِيَاتٌ - (ع۔ ا۔ مذمہ) وقایہں (مجاہد) وفات پانے والے۔

وق

وَقَّارٌ - (ع۔ صفت) نہایت روشن۔ بہت چمکیلا۔
 وَقَارٌ - (رُ، قَارٌ) ۱۔ مذمہ (بھاری بھری کم پن۔ متانت۔ سنجیدگی۔ مہربانی (۱۲) قدر و منزلت۔ جاہ۔ جلال۔

وَقَارِعٌ - (ع۔ ۱۰۔ است) حملہ۔ دھاوا۔ جنگ۔
 وَقَالِحٌ - (رُ، قَالِحٌ) ۱۔ مذمہ (قبیحہ) یعنی لڑائی کی خبر، کی جمع۔ جنگ
 کی خیریں۔ واقعات۔ حالات۔
 وَقَالِحٌ لِنَاكَ (تولیس) - (ع۔ ۱۰۔ ف۔ ا۔ مذمہ) جنگی نامہ نگار۔ جنگی مخبر۔
 (۲) نامہ نگار۔ اخبار نویس۔

وَقَالِحٌ لِنَاكَ (تولیس) - (ع۔ ۱۰۔ ف۔ ا۔ مذمہ) نامہ نگار۔ سرچہ نویس۔
 وَقْتٌ - (ع۔ ۱۰۔ مذمہ) گھڑی۔ ساعت۔ دم۔ عرصہ۔ مدت۔ مینا۔ وقفہ۔
 (۲) زمانہ۔ عہد۔ دور۔ چنگ (۳) موقع۔ بہنگام (۴) موسم۔ فصل۔
 رُت (۵) فرصت۔ مہلت (۶) باری۔ نسبت۔ دفعہ۔ بار (۷) حالت۔
 گت (۸) عمر۔ زندگی۔ حیات (۹) موت کی گھڑی (۱۰) مصیبت (۱۱)
 وقت و شوری جمع اوقات۔

وقت آپہنچنا - (۱۶) محاورہ (موت کا وقت آجانا۔ وعدہ آپہنچنا۔
 وقت آجانا (۱۷) محاورہ (موسم آجانا۔ رُت آجانا (۱۸) مصیبت آپہنچنا (۱۹)
 موت کا وقت آپہنچنا۔

وقت آنا، ہوا نہیں لگتا (۱۲) مثل، موت کے آنے پر دیر سوز نہیں ہوتی۔
 وقت آرزوست رفتہ و تیر از کمان جستہ باز نیاید - (ف۔ مثل)
 ہاتھ سے گیا ہوا وقت اور کمان سے نکلا ہوا تیر واپس نہیں آتا۔

وقت بدر - (ع۔ ۱۰۔ مذمہ) مصیبت کا وقت۔
 وقت برابر آنا (ہونا) (۱۶) محاورہ (زندگی کے دن پورے ہوجانا۔
 وقت بوقت - (۱۷) تابع فعل (کبھی کبھی۔ وقتاً فوقتاً۔

وقت بے وقت - (ع۔ ۱۰) تابع فعل، موقع بے موقع (۱۲) ہر وقت۔ ہر
 موقع پر ہمیشہ برابر۔

وقت پانا - (۱۶) محاورہ (فرصت پانا۔ موقع حاصل ہونا۔
 وقت پر - (۱۷) تابع فعل (عین موقع پر (۱۸) مصیبت یا لڑائی کے وقت (۱۹)
 موسم پر۔ رُت کے موقع پر۔

وقت پر اوسان بجا رہنا (۱۸) محاورہ (مصیبت یا گھبراہٹ کے موقع
 پر بدعاش نہ ہونا۔

وقت پر بھاگ جانا، ہی مردانگی ہے - (۱۷) مثل (موقع کے موافق کام
 ہی دانائی ہے۔

وقت پر پہنچنا - (۱۸) محاورہ (موقع پر پہنچنا۔ ضرورت کے وقت حاضر ہونا

نہیں مل سکتا۔
 وعظ - (ع۔ ۱۰۔ مذمہ) مذہبی نصیحت جو زبان کی جائے۔ مذہبی تقریر۔ مذہبی
 باتوں کا بیان۔

وعظ کرنا۔ (دکھنا) - (۱۶) محض مرکب (مذہبی تقریر کرنا (۱۷) نصیحت کرنا۔
 وعلیکم السلام (دع۔ ۱۰۔ ع۔ ۱۰۔ ف۔ ا۔ مذمہ) سلام اور تم پر بھی
 سلامتی ہو۔ السلام علیکم کا جواب۔

وعیندہ - (و۔ عیندہ) ۱۔ مذمہ (مزادینے کی دھکی (۲) سزا دینے
 کا وعدہ۔

وغ

وغا - (و۔ غا) ۱۔ مذمہ (لڑائی۔ جنگ (۲) ہنگامہ۔ شور و غل۔
 ڈنگا۔ فساد۔

وغیرہ - (و۔ ۱۰۔ مذمہ) اور بھی اور اس کے ماسوا۔

وف

وفا - (و۔ فا) ۱۔ مذمہ (نہا۔ ساتھ دینا (۲) خیر خواہی۔ نیک حالی۔ وپسگی
 عقیدت مندی (۳) تمیز۔ تمیز۔

وفا پر گمانہ - (ع۔ ۱۰۔ ف۔ ا۔ مذمہ) بے وفا۔ جو وعدہ پورا کرنے کا عادی نہ ہو
 وفا پرست - (ع۔ ۱۰۔ ف۔ صفت) وفادار۔ با وفا۔ بنا پھنے والا۔ مخلص۔
 وفایا پیشہ - (ع۔ ۱۰۔ ف۔ صفت) جو سب کے ساتھ وفا کرے۔ جو ہمیشہ
 وفادار رہے۔

وفادار - (ع۔ ۱۰۔ ف۔ صفت) وفا کرنے والا۔ نہا پھنے والا۔ با وفا۔
 وفاداری - (ع۔ ۱۰۔ ف۔ صفت) نہا پھنا۔ ساتھ دینا۔ وفا کرنا۔
 وفاشعار - (ع۔ ۱۰۔ ف۔ صفت) نہا پھنے والا۔ وفا کرنے والا۔ حسن کا شعار
 وفا کرنا۔

وفاکیش - (ع۔ ۱۰۔ ف۔ صفت) دیکھے وفاشعار۔
 وفات - (و۔ وفات) (ع۔ ۱۰۔ مذمہ) موت۔ انتقال۔
 وفات پانا - (۱۶) محاورہ (مرجانا۔ انتقال کر جانا۔
 وفات شریف - (ع۔ ۱۰۔ مذمہ) کسی بزرگ یا واجب التعمیر شخصیت کا انتقال
 (۱۷) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال۔

وفاق - (و۔ فاق) (ع۔ ۱۰۔ مذمہ) اتحاد۔ اتفاق (۱۲) کئی ریاستوں یا صوبوں
 کا مل کر ایک حکومت بنالینا (انگ) (۱۳) فیکڈیشن۔ (Federation)
 وفاقی - (و۔ فاقی) (ع۔ صفت) وفات سے مشوب (انگ) (Federal)
 وفد - (ع۔ ۱۰۔ مذمہ) نمائندوں کی جماعت (۱۷) چند اشخاص کا کوئی پیغام لے کر کسی
 افسر یا حاکم کے پاس جانا (انگ) (۱۸) فیکڈیشن (Deputation)
 وفقی - (ع۔ ۱۰۔ مذمہ) موافقت۔ مطابقت۔

جانا۔ ٹھیک موقع پر آنا۔

وقت پر صاف جواب دینا۔ ۱۶۔ محاورہ (مزدور کے وقت کام نہ آنا۔

وقت پڑنے پر منہ موڑ لینا۔ موقع پر بیٹھ دکھا جانا۔

وقت پر صاف نکل جانا۔ ۱۶۔ محاورہ (عین موقع پر قول سے پھر جانا۔

وقت پر کام آنا۔ ۱۶۔ محاورہ (مزدور کے وقت مفید ثابت ہونا۔ وقت

پڑنے پر ساتھ دینا۔

وقت پر کچھ ہی نہ آنا۔ ۱۶۔ محاورہ (مصیبت پڑنے پر کوئی تجویز کارگر نہ ہونا

وقت پر فنی کام نہیں آتا۔ ۱۶۔ مثل (مصیبت میں کوئی مدد نہیں کرتا۔

وقت پر کوئی بچانا۔ ۱۶۔ محاورہ (موتے پر دعا دے جانا۔ مل جانا۔ حالات

کی زد سے بچ جانا۔

وقت پیری شباب کی باتیں م۔ ۱۶۔ مثل (بڑھاپے میں جوان کی باتیں

ایسی ہیں جیسے خواب کی باتیں م یوں معلوم دیتی ہیں جیسے کوئی

خواب دیکھا تھا۔

وقت پڑنا۔ ۱۶۔ محاورہ (مصیبت پڑنا ۲) دقت یا دشواری ہونا ۳) ،

مزدور متذکرنا

وقت پڑنے پر کدھے کو باب بناتے ہیں۔ ۱۱۔ مثل (مزدور

بالا چاری کی حالت میں اڈنے دہنے کے لوگوں کی بھ خوش مد کرنی

پہنتی ہے۔

وقت پڑنے پر جانے کو پیری کو مصیبت۔ ۱۶۔ مثل (یہ بات

مصیبت کے موتے پری معلوم ہوتی ہے کہ کون دشمن ہے اور کون دوست

دوست۔ دشمن کی آزمائش مصیبت کے وقت ہوتی ہے۔

وقت تاکنا (دیکھنا)۔ ۱۶۔ محاورہ (موتے کی تلاش میں رہنا۔

وقت تنگ ہونا۔ ۱۶۔ محاورہ (کوئی کام جس وقت کرنا ہو اس میں

تھوڑا وقفہ جانا۔

وقت ٹالنا۔ ۱۶۔ محاورہ (وقت گزاری کرنا۔ موقع ٹالنا۔

وقت ٹھیک کرنا۔ ۱۶۔ محاورہ (گھڑی کا وقت درست کرنا۔

وقت جا کر نہیں آتا۔ ۱۶۔ مقولہ (جو لمحہ گزر جاتا ہے۔ وہ پھر واپس

ہیں آتا۔

وقت دینا۔ ۱۶۔ محاورہ (علاقات یا کسی کام کے لیے وقت مقرر کرنا۔

وقت سب کچھ کرا لیتا ہے۔ ۱۶۔ مقولہ (موتے اور مزدور کے وقت

انسان کام کر لیتا ہے جو اس سے عام حالات میں نہیں ہوتا۔

وقت ضائع کرنا۔ ۱۶۔ مص مرکب (بیکار مشغلوں میں وقت برباد کرنا۔

وقت فضیلت۔ ۱۶۔ ع۔ ۱۔ مذ (وہ وقت جب غار پھٹنا افسل ہو۔

وقت کا۔ ۱۶۔ ص (زمانے کا عہد کا۔

وقت کا باند۔ ۱۶۔ مذ (ٹھیک وقت پر کام کرنے والا۔

وقت کاٹنا۔ ۱۶۔ محاورہ (وقت گزارنا ۲) دن پورے کرنا ۳) دل پہلانا۔

وقت کار و نایے وقت کی سہسی سے اچھا۔ ۱۶۔ مثل (سہریات اور ہر

کام اپنے موقعے پر اچھا معلوم ہوتا ہے۔

وقت کو علمیت جانے۔ ۱۶۔ مقولہ (موتے سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔

وقت کی بات۔ ۱۶۔ مذ (اتفاق یا بات شدنی امر۔

وقت کی خوبی ہے۔ ۱۶۔ مثل (بڑے دن آجانے کی وجہ سے پریشانی

اٹھانی پڑتی ہے۔

وقت کے بادشاہ ہیں۔ ۱۶۔ مثل (بہت وسیع اختیارات کے مالک ہیں۔

۲) (طنزاً) (لا بدہا ہیں۔ بے فکرے ہیں۔

وقت کے وقت۔ ۱۶۔ تا بل فعل (عین موقع پر۔ بروقت۔ ٹھیک اس

وقت جب مزدور ہو۔

وقت گزار دینا۔ ۱۶۔ محاورہ (ٹھکانے رکھنا ۲) کام وقت پر دکرنا ۳) ،

موقع نکال دینا۔

وقت گزار جانا۔ ۱۶۔ محاورہ (موقع مل جانا۔ وقت جانا رہنا۔

وقت گزار گیا بات رہ گئی۔ ۱۶۔ مثل (وقت تو چھڑا گیا مگر

تھکایت رہ گئی۔

وقت گزرے تیجھے عقل آتی ہے۔ ۱۶۔ مثل (کام بگڑنے کے بعد

ای تدبیر سوچتی ہے۔

وقت گنونا۔ ۱۶۔ مص مرکب (وقت ضائع کرنا۔ وقت کا خون کرنا۔

وقت برباد کرنا۔

وقت ملنا۔ ۱۶۔ محاورہ (فرصت ہونا ۲) موقع ہاتھ آنا۔

وقت نازک ہونا۔ ۱۶۔ محاورہ (حالات اچھے نہ ہونا۔ ایسی حالت ہونا جس

میں دیکھ بھال کر لینا چاہیے۔

وقت نا وقت۔ ۱۶۔ تا بل فعل (بے قاعدگی سے بروقت۔ موقع بے

موقع۔ وقت مقرر کیے بغیر۔ کبھی کبھی۔ گاہ بگاہ۔

وقت نکالنا۔ ۱۶۔ محاورہ (فرصت نکالنا ۲) مصیبت یا پریشانی کے زمانے میں

زندگی بچوں کو گزارنا۔

وقت نکل جاتا ہے بات رہ جاتی ہے۔ وقت نہیں رہتا

بات رہ جاتی ہے۔ ۱۶۔ مثل (کام تو کسی نہ کسی طرح نکل ہی جاتا ہے

البتہ جو ضرورت یا مصیبت میں ساتھ نہ دے اس کی بدسلوکی یاد

رہتی ہے۔

وقت نکل جانا۔ ۱۶۔ محاورہ (ضرورت پوری ہو جانا۔ مصیبت حل جانا ۲) ،

موقع ہاتھ سے جانا رہنا۔

وقت نہ رہنا۔ ۱۶۔ محاورہ (موقع نکل جانا۔ وقت گزر جانا۔

وقت والپسین۔ ۱۶۔ ع۔ ۱۔ مذ (آخر وقت۔ نزع کا وقت۔ جان کنی کے

لئے مرنے وقت۔

وقت کاراگ اچھا ہوتا ہے۔ ۱۶۔ مثل (ہر چیز اپنے موقع و محل پر

اچھی ہوتی ہے۔

وقت کاراگ ہے۔ ۱۶۔ مثل (بروقت کی ایک انگ راگنی ہے جیسا

موقع ہر کسی ہی بات کرنی چاہیے۔

وقت ہاتھ سے جانا۔ ۱۶۔ محاورہ (موقع نکل جانا۔

وقت ہاتھ سے نہ دینا۔ ۱۶۔ محاورہ (موقع نہ گنونا۔ وقت ضائع دکرنا۔

وقت ہو جانا (ہونا)۔ ۱۶۔ محاورہ (وقت پورا ہو جانا ۲) موقع ہونا۔

وقتاً وقتاً۔ روق۔ روق۔ روق۔ تا بل فعل (کبھی کبھی۔ گاہ بگاہ۔

دقتی۔ روق۔ روق۔ روق۔ ص (وقت کا زمانے کا ماضی۔

وگ

دراگ - (Wig) درنگ - ادمت، مصنوعی بالوں کی پوٹی۔
دراگر - روگر، ارف، حرف عطف، اور اگر۔
دراگرنا - روگرنا، ارف، تابع فعل، اور نہ اور اگر نہیں۔

ول

ولا - (و - لا) - ارف، ادمت، محبت، اذعت - دوستی۔

ولا - (و - لا) - ارف، ادمت، وقت - عرصہ۔

ولا - (Villa) (و - لا) - ارف، ادمت، محل یا مکان - بنگلو۔

ولادوت - (و - لا - ادمت) - ارف، ادمت، پچھ پچھا ہونا - جرم - پیدائش۔

ولایت - (و - لا - ایت) - ارف، ادمت، ملک، اذعت - سلطنت - مملکت
 بادشاہت، بادشاہت کے باشندوں کے لیے وہ ملک جہاں
 کا بادشاہ ہو، کسی کام کی ذمہ داری، کفالت، اور ولی ہونا، سرپرست
 ہونا اور ولی کا مرتبہ۔

ولایت یا نا - (و - لا - ایت) - ارف، ادمت، ولی بناؤ، ولی کا مرتبہ حاصل کرنا۔

ولایت ترا - (و - لا - ایت) - ارف، ادمت، وہ جس کی پیدائش ولایت میں ہوئی ہو۔

ولایت میں کیا گدھے نہیں ہوتے، ارف، ادمت، بیوقوف، عقل مندوں اور
 دانوں کے دوس میں بھی پائے جاتے ہیں۔

ولایت - (و - لا - ایت) - ارف، ادمت، تابع فعل، اور روئے ولایت - ولی ہونے کی
 بنا پر، ارف، ادمت، وارث ہونے کی حیثیت میں۔

ولایتی - (و - لا - ایت) - ارف، ادمت، ولایت کا رہنے والا (و - لا - ایت)
 کا بنا ہوا، ارف، ادمت، جنگلی - وحشی - انجان - بولی نہ سمجھنے والا (ادمت)
 تلوار - شمشیر۔

ولد - (و - لا - ادمت) - ارف، ادمت، لڑکا، فرزند، پسر، پوتہ، جمع اولاد۔

ولد الحرام - (و - لا - ادمت) - ارف، ادمت، حرامی، حرام کا بنا۔

ولد الملک - (و - لا - ادمت) - ارف، ادمت، حلالی، حلال کا بنا۔

ولد الزنا - (و - لا - ادمت) - ارف، ادمت، حرام زادہ۔

ولدیت - (و - لا - ایت) - ارف، ادمت، باپ کا نام، حسب نسب
 اصل - نسل - خاندان

ولندیز - (و - لا - ایت) - ارف، ادمت، نیدر لینڈ، ہالینڈ، یورپ
 کا ایک ملک۔

ولندیزی - (و - لا - ایت) - ارف، ادمت، نیدر لینڈ سے متعلق (و - لا - ایت)
 ادمت، ولندیزی کا باشندہ۔

ولندیزی گفتگو - (و - لا - ایت) - ارف، ادمت، ولندیزی زبان، نیدر لینڈ کی زبان۔

ولندیزی لقمے چلتے ہیں - (و - لا - ایت) - ارف، ادمت، لا بالی یا ڈپرٹی باتیں
 کرتے ہیں۔

ولولہ - (و - لا - ادمت) - ارف، ادمت، خوش، امانگ، بہت زیادہ شوق۔
ولولہ اٹھنا - (و - لا - ادمت) - ارف، ادمت، خوش پید ہونا، امانگ پید ہونا۔

ولی - (و - لا - ادمت) - ارف، ادمت، ایسا انسان جو خدا کے قریب ہو، سرپرست -
 محافظ، مرنے والی، جمع اولیا۔

ولی اللہ - (و - لا - ادمت) - ارف، ادمت، خدا رسیدہ - مقرب بارگاہ الہی، بزرگ دین
ولی جائز - (و - لا - ادمت) - ارف، ادمت، وہ شخص جسے کسی نابالغ لڑکے یا لڑکی کا ولی مقرر

کیا گیا ہو،
ولی کھنکر - (و - لا - ادمت) - ارف، ادمت، صفت، حمایتی - مددگار، سرپرست
 اور بنادلی ولی - خود ساختہ پرور شدہ

ولی را ولی می شناسد - (و - لا - ادمت) - ارف، ادمت، کسی آدمی کی اہلیت کو وہی شخص
 تاڑتا ہے جو خود اسی جیسا ہو۔

ولی عہد - (و - لا - ادمت) - ارف، ادمت، بادشاہ وقت کا ہونے والا جانشین - وارث
 تخت و تاج۔

ولی عہد می - (و - لا - ادمت) - ارف، ادمت، ولی عہد کا مرتبہ، ولی عہد رہنے کا زمانہ۔

ولی قریب - (و - لا - ادمت) - ارف، ادمت، نزدیکی، سرپرست۔

ولی کے گھر شیطان - (و - لا - ادمت) - ارف، ادمت، لائق آدمی کا نالائق بیٹا - اچھوتوں
 کی بڑی اولاد۔

ولی نعمت - (و - لا - ادمت) - ارف، ادمت، پرورش کرنے والا - آقا - مرنے - سرپرست۔
ولی نے کیا کام شیطان کا - (و - لا - ادمت) - ارف، ادمت، شریف آدمی نے بد سمانوں

جیسی حرکت کی۔

ولے - (و - لا - ایت) - ارف، ادمت، حرف استعارہ، دلیک کا مخفف - یکسی - مگر۔

ولے بزنڈیش - (و - لا - ایت) - ارف، ادمت، مجبوری سے کوئی کام کرنے کے موقع پر
 کچھ بہنے۔

دلیک - (و - لا - ایت) - ارف، ادمت، دلیک، دلیک کا مخفف اور
 دلیک عربی دلیک اور مگر اور دلیک کا بگاڑ ہے - لیکن - مگر

ولیم - (و - لا - ایت) - ارف، ادمت، شادی کی ضیافت، بیامہ کی دعوت، نکاح
 کے بعد کی دعوت جو دلہا کی طرف سے دی جاتی ہے۔

ولین - (Villian) - (و - لا - ایت) - ارف، ادمت، بد سمانش، ر، ڈھاسے میں
 بد کردار شخص، سیر دی ضد۔

ولیت - (و - لا - ایت) - ارف، ادمت، ولی عہد، وہ خاتون جو کسی نابالغ کی
 سرپرست مقرر کی جائے۔

ون

ون - (و - ن) - ارف، ادمت، جمع ون۔

ونیت - (و - ن) - ارف، ادمت، صاحب - والا - مالک جیسے دھن وخت و دولت مند،

ونڈرائنگ - (Vandyke) - (و - ن) - ارف، ادمت، ایک
 خاص طریقہ کتابت و طباعت۔

ونڈر کمانڈر - (Wing Commander) - (و - ن) - ارف، ادمت، برائی

فوج کا افسر

و نہیں۔ (دن۔ میں، اتنی، ان کو۔)

و - و

ووٹ - (Vote) (انگ۔ ۱۔) رائے، کسی معاملے کے لیے رائے دینا، عوامی نمائندوں کے انتخاب کے لیے تحریری اظہار رائے کی پرجی رقم، رائے دہی۔

ووٹ پڑنا (وٹا لانا) - (۱۶۔) محاورہ، نامزدگی کے کاغذ پر دستخط کر کے ڈالنا ڈھال جانا،

ووٹ دینا - (۱۶۔) محاورہ، رائے دینا، کسی تجویز کے خلاف یا موافقت میں رائے دینا۔

ووٹر - (Voter) (انگ۔ ۱۔) مذم ووٹ دینے والا، رائے دینے والا۔

ووٹنگ - (Voting) (ووٹنگ، انگ۔ ۱۔) امتحان، رائے شماری، رائے دہی۔

ووولٹ - (Volt) (انگ۔ ۱۔) برقی قوت کی اکائی۔

وول - (۱۶۔) تابع فعل، اس طرح۔

وول سا - (۱۶۔) تابع فعل، ایسا ہی۔ اسی طرح کا رجمن سا کے مقابل استعمال ہوا کرتا تھا،

وول کا - (۱۶۔) تابع فعل، رد نہیں، جوں کا توں، ویسا ہی۔

وول ہی - (۱۶۔) تابع فعل، فوراً، اسی وقت۔

وولنی - (ووٹی، ۵۔) کلمہ تعجب، واہ! اونی! (عورتیں کہتی ہیں،)

و - و

وہ - (۶۔) کلمہ تحسین، واہ! شاباش! (۲۷۔) کلمہ افسوس، (۳۔) کلمہ نفرت، بوجہ۔

وہ - (۱۶۔) ضم، غائب یا بید کی طرف اشارہ، اس قدر آتنا، (۲۰۔) ایسا اس قسم کا، اس درجے کا، (۲۱۔) پہلا سا، (۲۲۔) اچھے مرتبے کا، (۲۳۔) پوشیدہ

برسات کی طرف اشارہ، (۲۴۔) لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے۔

وہ آٹھیں نہیں رہیں - (۱۶۔) مثل، (۱۶۔) وہی سہمی صورت اور محبت نہیں رہی۔ وہ اندازہ طور طریقے چلتے رہے۔

وہ اپنی خوشی کا ہے - (۱۶۔) مثل، (۱۶۔) وہ کسی کا کہنا نہیں مانتا۔

وہ بات - (۱۶۔) مثل، (۱۶۔) مرتبہ یا عزت و احترام، (۲۰۔) وہ کام، (۲۱۔) وہ وقت۔

وہ بات، ہوگئی - (۱۶۔) بول چال، وہ کام ہوگیا، مقصد حاصل ہوگیا۔

وہ بال کھینچوں کہ جس کی جڑ دوڑ ہو - (۱۶۔) مثل، (۱۶۔) سارے عیب ظاہر کر دوں، جس سے کام عالم میں رسوائی ہو۔

وہ جھلا مائش کیسا جس کے پاس نہیں پیسا - (۱۶۔) مثل، (۱۶۔) اسے

سے انسان شریف بن جاتا ہے۔

وہ بھی دن ہوگا دکھڑی ہوگی - (۱۶۔) کلمہ تمنا، (۱۶۔) کوئی ایسا وقت بھی لگے گا جب اپنا ارمان پورا ہوگا۔

وہ بھی نہ کوزا - (۱۶۔) بول چال، (۱۶۔) وہ بات بھی نہ ہوئی۔ وہ مقصد بھی حاصل نہ ہوا۔

وہ بانی ملتان ہو گیا - (۱۶۔) مثل، (۱۶۔) وہ موقع جاتا رہا۔

وہ فوجیے - (۱۶۔) بول چال، (۱۶۔) قیمت یہ ہے کہ۔

وہ جانے اور اس کا ایمان جانے - (۱۶۔) مثل، (۱۶۔) کسی چیز کو کسی کے ایمان اور نیت پر چھوڑ دینے کے موقع پر کہتے ہیں

وہ جانے اور اس کا کام جانے - (۱۶۔) مثل، (۱۶۔) کام سے سیکھو، (۱۶۔) ہونے یا بری الذمہ ہونے کے موقع پر بولا جاتا ہے۔

وہ جو کہا ہے - (۱۶۔) تابع فعل، (۱۶۔) جیسا کہ کہا ہے۔ جیسا کہ بیان ہوا ہے۔

وہ ڈر رہا ہی جل گیا - (۱۶۔) مثل، (۱۶۔) معاملہ ہی ٹھنڈا ہو گیا یا ختم ہو گیا۔

وہ دفتر کا ڈنڈو خورد ہو گیا - (۱۶۔) مثل، (۱۶۔) وہ کام ختم ہو گیا۔

وہ دل ہی نہیں رہا - (۱۶۔) روزمرہ، (۱۶۔) وہ حوصلہ نہیں رہا۔ وہ طبیعت نہیں رہی۔

وہ دن - (۱۶۔) مذم وہ وقت، وہ زمانہ، وہ برادقت۔

وہ دن اور آج کا دن - (۱۶۔) تابع فعل، (۱۶۔) اس دن سے لے کر آج تک۔

وہ دن ڈبنا جو کھوڑی چڑھا لیتا - (۱۶۔) مثل، (۱۶۔) جس دن یہ عیب دار (گھبرا،

دربانے گا۔ وہ دن غارت ہو جائے گا۔

وہ دن کیا تھے - (۱۶۔) مقولہ، (۱۶۔) کیا اچھا زمانہ تھا۔

وہ دن کہاں - (۱۶۔) مقولہ، (۱۶۔) وہ وقت اب پیسہ نہیں۔

وہ دن لگے - (۱۶۔) مقولہ، (۱۶۔) وہ زمانہ نہیں رہا۔

وہ دن گئے جب خلیل خاں فاتحہ اڑایا کرتے تھے - (۱۶۔) مثل، (۱۶۔) اچھے دن گزر گئے، اب اور وقت ہے۔

وہ دن یاد کرو - (۱۶۔) مقولہ، (۱۶۔) اپنی کچھ حالت کو نہ بھولو۔

وہ دوپٹے منجھڑھا رہن پر بھاری بوجھ - (۱۶۔) مثل، (۱۶۔) اپنے پیچھے زیادہ جھگڑے نہ لگاؤ، (۱۶۔) تباہ ہو جاؤ گے۔

وہ کاٹا - (۱۶۔) کلمہ تحسین، (۱۶۔) تنگ کانٹے پر بولا جاتا ہے۔

وہ کچھ - (۱۶۔) تابع فعل، (۱۶۔) دکتا، (۱۶۔) بہت کچھ۔

وہ کچھ چکا - (۱۶۔) مقولہ، (۱۶۔) اس سے یہ کام نہ ہوگا۔ وہ نہیں کرے گا۔

وہ کچھ نہیں - (۱۶۔) روزمرہ، (۱۶۔) بہت کچھ برا بھلا کہا۔

وہ کئی ہی نہیں جس میں تہ بندھتے تھے - (۱۶۔) مثل، (۱۶۔) اب وہ بات ہی نہیں ہے جس کی وجہ سے لوگ متوجہ ہوتے تھے۔

وہ کو رووں دے کر پڑھا ہے - (۱۶۔) مثل، (۱۶۔) لکھنا پڑھنا بالکل ہی نہیں جانتا۔ استاد کی اچھن خدمت نہیں کی، اس لیے ٹھیک سے پڑھنا ہی نہیں آتا۔

وہ کون سی کشمکش ہے جس میں تیرکا نہیں - (۱۶۔) مثل، (۱۶۔) ہر چیز میں کوئی نہ کوئی عیب ضرور ہوتا ہے۔

وہ کیا کسی کا خدا ہے - (۱۶۔) مقولہ، (۱۶۔) یعنی اس سے کوئی نہیں ڈرتا۔

وہ کیسیا کر کیسیا جو مانگے پیسا - (۱۶۔) مثل، (۱۶۔) ہنرمند کو اپنا کام دوسروں

سے نہیں کر دانا چاہیے (۲) دولت مند ہو کر مفلسوں کی سی حرکتیں نہیں کرنی چاہئیں۔
 وہ مارا ۱۱۔ بھڑکتی کسی کام میں اچانک کامیابی وقوع حاصل ہونے کے موقع پر کہتے ہیں۔
 وہ نہیں تو اس کا بھائی اور ہسی ۱۱۔ شل (کسی خاص آدمی کے دیکھنے سے کام نہ لگتا رہتا۔
 وہ ۵-۵ ۱۱۔ تابع فعل (ایسا ایسا۔

وہ باب ۱۔ وہ (۱) صفت بہت بخشنے والا۔ خدائے تعالیٰ کا ایک صفاتی نام۔
 وہ بانی ۱۔ وہ (۱) صفت ۱۱۔ مذہبی شیخ عبدالوہاب کے فرتے سے تعلق رکھنے والا۔ اردو میں بغیر تشدید یا مستعمل ہے۔
 وہ تاج ۱۔ وہ (۱) صفت بہت چمکتا ہوا۔
 وہارف ۱۔ وہ (۱) انگ (۱) مذہبی گھاٹ۔
 وہاں ۱۔ وہ (۱) تابع فعل (میں جگہ اس مقام پر۔ ادھر کسی کے یہاں۔

وہاں تک گذر کر ایسے جہاں تک دوسرا رو نہ دے۔
 وہاں تک ہنسنا ہے جو رو نہ دے (۱) شل (ہنسی مذاق اتنا ہی لہجہ ہے جتنا ناکارہ گزرتے اور باعث تکلیف نہ ہو۔
 وہاں فرشتوں کے پر چلتے ہیں ۱۔ شل (وہاں کوئی نہیں جاسکتا وہاں جانے کی کوئی جرات نہیں کر سکتا۔
 وہاں گردن مارے جہاں پانی نہ ملے ۱۲۔ شل (ایسے کو تو سنگین سزا دینا چاہیے۔ اذیت سے مارنا چاہیے۔

وہ سب ۱۔ وہ (۱) صفت (قدرت کی طرف سے دیا گیا۔ بخشنا ہوا۔
 وہ ہسی ۱۔ وہ (۱) صفت (قدرت کی طرف سے دیا گیا۔ بخشنا ہوا۔
 وہ کسی کی ضد۔

وہ سب ۱۔ وہ (۱) انگ (۱) مذہبی پارلیمنٹ کی کسی پارٹی کا وہ صدر جو اس کے اراکین میں تالی میل رکھتا ہے۔
 وہ ہلا ۱۔ وہ (۱) مذہبی حملہ دھاوا ۲۱۔ نوبت باری۔
 وہ کلمہ پڑھا ۱۔ وہ (۱) مقولہ (اور چلے آؤ کھینچتے ہوئے۔
 وہ ہم ۱۔ وہ (۱) مذہبی شک۔ گمان۔ احتمال۔ بے اعتباری (۲) دماغ کی وہ قوت جو فاسد خیالات پیدا کرتی ہے۔ جمع (۱) وہ ہم۔

وہ ہم بندھنا ۱۱۔ مجاورہ (شک گزرتا کسی چیز میں کوئی کمی یا خامی سمجھنا۔
 وہ ہم کا پتلا ۱۱۔ مذہبی انسان جو ہر بات میں وہم کرے۔
 وہ ہم کرنا ۱۱۔ مجاورہ (بے بنیاد خیال قائم کرنا۔ دوسواں کرنا۔
 وہ ہم کا دار و تولقیان کے پاس بھی نہیں ۱۱۔ شل (وہم دور کرنے کی کوئی تدبیر ممکن نہیں۔ وہم کا کوئی علاج نہیں۔
 وہ ہم لانا ۱۱۔ مجاورہ (دل میں شک گزرتا۔ بدگمان کرنا۔

وہ ہی ۱۔ وہ (۱) صفت (جو ہر بات میں وہم کرے (۲) وہم سے تعلق رکھنے والی بات۔ قیاسی خیالی ہوم۔
 وہ ہو ہذا ۱۔ وہ (۱) ذہنی (۱) تابع فعل (اور وہ یہ ہے اور

وہ یوں ہے۔
 وہی ۱۔ وہ (۱) تابع فعل (وہ ہی (۲) اسی طرح۔ شل۔ سابق پہلے ہی جیسے طریقے سے۔
 وہی اپنا جانے کام آئے ۱۱۔ شل (جس سے فائدہ یا فیض پہنچنے اسی کو اپنا سمجھنا چاہیے۔
 وہی بات ۱۱۔ مذہبی (۱) صفت (جماعت سے۔
 وہی بات کھوٹے کی لات ۱۱۔ شل (بے بنیاد بات کے بارے میں کہتے ہیں۔

وہی لوگوں ۱۱۔ تابع فعل (مجھے خود ہی خیال آتا ہے۔
 وہی یں بیسی ۱۱۔ وہی ساٹھ ۱۱۔ شل (بات ایک ہی ہے چاہے جیسے کہ ہو۔
 وہی ڈھاک کے میں بات ۱۱۔ شل (مسائل جن کا ٹوں ہے معمولی مقررہ رقم سے پرکتے ہیں۔
 وہی راگ گانا ۱۱۔ مجاورہ (وہی ہماری بات بار بار کہنا۔
 وہی کا سہ وہی آتش ۱۱۔ شل (پہلی حالت تبدیل نہ ہونے پر کہتے ہیں وہی کتیا جس کے ابلق بال ۱۱۔ شل (ناممکن اور تعجب انگیز بات۔

وہی سرے کی ایک ٹانگہ ۱۱۔ شل (ایک ہی بات کی پچ کیے جانا اپنی ہی رٹ لگانا۔
 وہی من ہو ہی چالیس سیر ۱۱۔ شل (مطلب ایک ہی ہے چاہے جیسے سمجھ لو۔
 وہی میاں دربار کو وہی چولھا چھوکنے کو ۱۱۔ شل (وہ شخص جس کو اپنے سارے چھوٹے بڑے کام خود ہی کرنے پڑیں۔
 وہی وہ ۱۱۔ تابع فعل (مخضار کے لیے مستعمل ہے۔

وہی ہم وہی ہم ۱۱۔ مقولہ (ہرانی جان بھجان۔ مذہم بدلے نہ ہم بدلے۔
 وہیل ۱ (Whale) ۱۔ انگ (۱) صفت (مچھلی کی شکل کا ایک بڑا دھڑ پلانے والا بہت بڑا دریائی جانور۔
 وہیں ۱۔ وہ (۱) تابع فعل (اسی جگہ۔ اسی مقام پر (۲) اسی وقت کسی دم۔ اسی لمحے۔ فوراً۔
 وہیں کا ہو رہنا ۱۱۔ مجاورہ (کسی جگہ جا کر جلد واپس نہ آنا۔ واپسی میں دیر لگانا۔ کہیں جا کر بیٹھ رہنا۔

وہیں مر رہا ۱۱۔ مقولہ (بڑی دیر کر دی۔ کسی کے انتظار میں کہتے ہیں

وہ

وہ ۱۱۔ من (۱) جمع (۱) اب اردو میں "وہ" واحد جمع دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ (۱) ق
 وہی ۱۱۔ مذہبی (۱) صفت (موقوف پر ختم ہونے والے اسما کی "ہی" کو واؤ سے بدل کر "یا" سے نسبت بڑھاتے ہیں۔ جیسے دہلی سے دہلوی۔

ویرتا۔ (ویرتا، اس - ۱۔ منڈ) بہاوری۔ شہامت۔ جوانمردی۔
 ویرتا۔ (ویرتا، ۵ - ۱۔ منڈ) بل کادہ لوہا جو بل جلتے میں زمین کھودتا ہے
 بھالی (مص) بھالی سے کھیت کی زمین جو تباہ ہو۔ بیخ فٹالنا۔
 ویروار۔ ۵۱۔ ۱۔ منڈ جمعات۔ پینشنہ۔
 ویرا (Visa) وی - ۱۰۔ منڈ) ۱۔ منڈ) پروانہ مرادہ لی۔
 ویرلین۔ (Vaseline) (انگ - ۱۔ منڈ) ایک قسم کی پکتی نرم چیز
 جو گرم میں استعمال ہوتی ہے اور اعضا میں نرمی پیدا کرنے کیلئے لگاتے ہیں
 موسم زدنی۔

ویرسا۔ (ویرسا، ۵ - ۱۔ منڈ) اسی طرح کا۔ اس جیسا۔ اس قسم کا
 اس ڈھنگ کا۔
 ویسا کا ویسا۔ ۱۶۔ (صفت) جیسا پہلے تھا۔ ویسا ہی۔ جوں کا توں۔
 ویسا ہی ۱۷۔ (صفت) خاص اس قسم کا۔ اس جیسا۔ ٹھیک اسی طرح کا۔
 ویسٹ کوٹ۔ (Waist Coat) (انگ - ۱۔ منڈ) کرکٹ کھیلنے والوں کا
 وایسٹ۔ (صدی)۔

ویسے لو۔ (۱) (بال فعل) عام طور سے۔ اور لحاظ سے۔ (دوسرے پہلوؤں سے۔
 ویسے کا ویسا۔ ۱۶۔ (صفت) دیکھیے ویسا کا ویسا۔
 ویسے ہی۔ ۱۶۔ (صفت) یوں ہی۔ بغیر کسی خاص مطلب یا غرض کے۔ بلا وجہ
 ۱۲۔ (صفت) بطور تمغہ یا بخشش۔

ویسی۔ (ویسی، ۵ - ۱۔ منڈ) ویسا کی تانیت۔
 وییش۔ ۱۰۔ (صفت) ہندو قوم کی چار ذاتوں میں سے وہ ذات جو تجارت
 اور زراعت کرتی ہے۔
 وییشو۔ (ویش - نو، ۱۰۔ منڈ) ہندوؤں کا ایک بڑا فرقہ جو شینو
 دیوتا کو مانتا ہے۔

ویلشیا۔ (ویلشیا، اس - ۱۔ منڈ) طوائف۔ رنڈی۔ بیسوا۔
 ویکسین (Vaccine) (ویک۔ سین، انگ - ۱۔ منڈ) ایک زہریلا مادہ
 جس کا ٹیکا لگانے سے انسان جینک سے محفوظ رہتا ہے۔
 ویکینسی۔ (Vacancy) (وکے۔ کیس۔ سی، انگ - ۱۔ منڈ)
 خالی جگہ۔ عہدہ۔ یا آسامی۔

ویگ۔ (ویگ، ۱۔ منڈ) حرکت۔ صدمہ۔ دھوکا (۱۲) سرعت۔ تیزی۔
 (۱۳) ہستی۔ زور۔

ویگ آنا۔ ۱۶۔ (صفت) مادہ جانور کا ہستی میں آنا۔
 ویگن۔ (Wagon) (وکے۔ گن، انگ - ۱۔ منڈ) مال گاڑنا
 کا ڈھانچہ، پھکر۔

ویلر۔ (ویلر، ۱۰۔ منڈ) بہت بڑی چیز۔ مضبوط آدمی (۲)، آسٹریلیا کا ایک
 رخصت قسم کا گھوٹا۔
 ویلکم۔ (Welcome) (ویل۔ کم، انگ - ۱۔ منڈ) خوش آمدید
 آمنا۔

ویکمپ (Vamp) (انگ - ۱۰۔ منڈ) قہر۔ عیار (۲) ڈرے میں بُرے
 کردار کی عورت۔ ایسروئن کی ضد۔

ویا کرن۔ (اس - ۱۔ منڈ) ترکیب (۳) تشریح (۳) صرف و نحو گرامر۔
 وی پی۔ (V.P.) (انگ - ۱۔ منڈ) مٹ (Value Payable) کا مخفف
 وہ مال جو قیمت دے کر ڈاک خانے سے وصول کیا جائے۔

ویٹاگ۔ (ویٹاگ، ۱۰۔ منڈ) قیمت۔ دوستی۔
 ویٹر۔ (Waiter) (اوسے۔ ٹر، انگ - ۱۔ منڈ) ہوٹل کا وہ خدمتگار
 جو کابچوں کو کھانا کھاتا اور ان کی ضرورتوں کا خیال رکھتا ہے۔
 ویٹرئیس۔ (Waitress) (ویٹ۔ رس، انگ - ۱۔ منڈ) ہوٹل میں
 کھانا کھلانے والی خادمہ۔

ویٹنگ روم۔ (Waiting Room) (اوسے۔ ٹنگ۔ روم، انگ
 ۱۔ منڈ) انتظار گاہ۔
 ویٹو۔ (Veto) (وی۔ ٹو، انگ - ۱۔ منڈ) کسی تجویز، فیصلے یا قانون
 کو نافذ نہ کرنے کا حق۔ حق استرداد۔

ویڈ۔ (اس - ۱۔ منڈ) ہندوؤں کی مقدس کتاب۔
 ویڈ۔ (اس - ۱۰۔ منڈ) ہندی طریقے پر علاج کرنے والا طبیب۔ بید۔
 ویڈانت۔ (ویڈے۔ دا۔ منڈ، ۱۰۔ منڈ) ہندوؤں کے فلسفے اور دنیا
 کا ایک نظام جس میں فافہ الہی پر بحث کی گئی ہے۔

ویڈانتی۔ (اس - ۱۔ منڈ) ویدانت کا عامل یا پیرو۔
 ویڈک۔ (اوسے۔ وک، اس - ۱۰۔ منڈ) وید کا عالم۔ جس نے وید پڑھا ہو (۲)
 (صفت) وید سے متعلق۔ وید کی تعلیم کے مطابق۔

ویڈک۔ (اوسے۔ وک، اس - ۱۰۔ منڈ) ہندی علم طب۔
 ویڈو۔ (اس - ۱۔ منڈ) بہادر۔ شجاع۔ پنی، بھائی۔

ویڈو۔ (اوسے۔ دا، ۵ - ۱۔ منڈ) ایسا مال یا سامان جو کسی کے ہاتھ زبردستی
 زیادہ قیمت پر فروخت کیا جائے۔
 ویڈو۔ (اس - ۱۰۔ منڈ) بیروگ۔ سنہاس۔ ترک دنیا۔
 ویڈو۔ (اس - ۱۰۔ منڈ) جس نے دنیا ترک کر دی ہو۔

ویڈو۔ (وی۔ ران، ۱۰۔ منڈ) (صفت) مہجرا ہو۔ غیر آباد۔ تباہ شدہ
 بجز۔ اجاڑ۔ جس میں کھیتی باڑی نہ ہوتی ہو۔ پریشان۔ بے رونق
 ادا۔

ویڈو۔ (ویڈو، ۱۰۔ منڈ) غیر آباد مقام۔ اجاڑ اور سنان مقام۔
 ویڈو۔ (اوسے۔ ویس مرکب، اجاڑ دینا۔ تباہ کر ڈالنا۔

ویڈو۔ (ویڈو، ۱۰۔ منڈ) وہ اجاڑ جگہ جہاں پہلے گاؤں آباد رہے۔
 ویڈو۔ (ویڈو، ۱۰۔ منڈ) جس مرکب میں اجاڑنا بے گھر ہونا۔ تباہ ہونا کسی
 جگہ سے آبادی کا اٹھ جانا۔ غیر آباد ہو جانا (۳) گنا۔ مسافر کو نام،
 پریشان ہونا۔ تیر۔ تیر ہونا۔

ویڈو۔ (وی۔ ران، ۱۰۔ منڈ) اجاڑ اور غیر آباد جگہ۔
 ویڈو۔ (ویڈو، ۱۰۔ منڈ) وہ شخص جو کسی اجاڑ جگہ رہتا ہو۔ جنگل میں
 رہنے والا۔

ویڈو۔ (وی۔ ران، ۱۰۔ منڈ) ران، اجاڑ پن۔ غیر آبادی۔
 (۲) تباہی۔ بہاوری (۳) بہتری۔ پرانگی (۳) بے رونق۔
 (۵) آداسی۔ پریشانی۔

۵۔ (ہے) (ع۔ ا۔ مومث) اردو کا چوتیسواں۔ فارسی کا اکتیسواں۔ عربی کا سنا بیسواں اور ہندی کا تینتیسواں حرف۔ اسے ہائے تختی اور ہائے ہوز بھی کہتے ہیں۔ حساب الجبہ میں اس کے پانچ عدد مقرر ہیں۔ عربی زبان کے مطابق ہر قمری حرف جس کے پہلے "ال" آئے گا تو "لام" پڑھا جائے گا جیسے الہادی۔

۱ - ۵

ہاتھ (آجانا) آنا (۱) محاورہ (۱) میسر آنا۔ دستیاب ہونا۔ ملنا۔ حاصل (۲) قبضہ ہونا۔ قابو میں آنا۔ (۳) جاننا۔ معلوم ہونا۔ دریافت ہونا

ہاتھ آنکھوں سے لگانا۔ (۱) صنایعی اور دستکاری کی تعریف کے لیے کاربرد کے ہاتھ آنکھوں سے ملنا۔ (۲) کمال تنظیم کا گمانہ۔

ہاتھ اٹھانا (اُتر جانا) اُترنا (۱) محاورہ (۱) ہاتھ کا جوڑ لینی جگہ سے ہٹ جانا۔ ہاتھ اٹھا کر دُعا دینا (۱) محاورہ (۱) پورے خلوص کے ساتھ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کسی کے لیے دُعا کرنا۔

ہاتھ اٹھا بیٹھنا (۱) محاورہ (۱) مار بیٹھنا۔ دست درازی کرنا۔ (۲) دست بردار ہونا۔ باز آنا۔ عمد کر لینا۔ توبہ کرنا۔

ہاتھ اٹھا اٹھا کر کوسنا۔ ہاتھ اٹھا کر کوسنا (۱) محاورہ (۱) آسمان کی طرف ہاتھ بڑھلے کر دُعا کرنا۔ بہت بددعا میں دینا۔

ہاتھ اٹھا کے دینا۔ (۱) محاورہ (۱) اپنی خوشی سے کوئی چیز دینا۔

ہاتھ اٹھا لینا۔ (۱) محاورہ (۱) کام چھوڑ دینا۔ دست بردار ہونا۔ (۲) کسی کی سماییت چھوڑ دینا۔

ہاتھ اٹھانا۔ (۱) ہاتھ اُچھا کرنا۔ ہاتھ بلند کرنا۔ (۲) سلام کرنا۔ ہاتھ پر ہاتھ رکھنا۔ (۳) بڑی طرح کوسنا۔ بددعا دینا۔ (۴) دُعا دینا۔ (۵) دُعا مانگنا۔ (۶) ہاتھ پھینکا۔ دُعا سے خیر کرنا۔ (۷) دست بردار ہونا۔ کنارہ کش ہونا۔ (۸) مارنا۔ پیٹنا۔ (۹) مایوس ہونا۔ ناامید ہونا۔

ہاتھ اُدھار۔ (۱) (مذ) قرض۔ دست گرداں۔ بغیر تحریر کے قرض۔

ہاتھ اٹھانا۔ (۱) محاورہ (۱) ہاتھ کا جوڑ سے جدا کرنا۔

ہاتھ اوپر کے تلے ہونا۔ (۱) محاورہ (۱) گرفتار ہونا۔ فشکیں کسی جاننا۔

ہاتھ اوٹ لینا۔ (۱) محاورہ (۱) دونوں ہاتھ اکٹھے پھینکا کر کوئی چیز لینا۔

ہاتھ اوجھا پڑنا۔ (۱) محاورہ (۱) پورا وارنہ بیٹھنا۔ پورا ہاتھ نہ پڑنا۔

ہاتھ اُچھا رہنا۔ (۱) محاورہ (۱) دست بلند رہنا۔ (۲) بول بالا رہنا۔ (۳) دینے کے قابل رہنا۔

ہاتھ کا اُچھا ہونا۔ (۱) محاورہ (۱) سخی ہونا۔ آسودہ حال ہونا۔

ہاتھ اٹھا بیٹھنا۔ (۱) محاورہ (۱) ہاتھوں کا پیر پھا ہوجانا۔ (۲) ہاتھ مروڑنا۔

ہاتھ باندھنا (۱) محاورہ (۱) ہاتھ بکڑنا۔ دونوں ہاتھوں کو بلا کر کسنا۔ (۲) ہاتھ جوڑنا۔ منت سماجت کرنا۔ (۳) تعظیم کے واسطے سینہ پر ہاتھ رکھنا۔

ہاتھ باندھنے۔ (۱) (تباع فعل) دست بستہ۔ کمال مطیع و فرمانبردار۔

ہا۔ (ف۔ ا۔ سٹ) (۱) حرف ہ کا تلفظ۔ (۲) فارسی اسموں میں علامت جمع جیسے درخت ہا۔ افسانہ ہا۔

ہائے تعین۔ (ف) وہ ہ جو مدد کا تعین ظاہر کرتی ہے جیسے دو ہا۔

ہائے دویشمی (ف) وہ ہائے ہوز جس میں دو آنکھیں بنا دیتے ہیں (ح)

ہائے تختی (ف) وہ ہائے ہوز جو کھل کر نہ پڑھی جائے اور حرف تاقب کی حرکت کو ظاہر کرے جیسے دُو آئینہ۔ اُسنائینہ۔

ہائے موقوفی (ف) وہ ہائے ہوز جو خوب کھل کر پڑھی جائے جیسے گاہ۔ راہ۔

ہا۔ (۱) کلمہ تانسف (۱) افسوس۔ حیف۔ دریغ۔ (۲) کسی امر کے روکنے اور منع کرنے کے لیے بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے۔

ہا بوڑا۔ (ہا۔ بو۔ ٹا) (۱) مذ [ایک ٹوٹ مار کرنے والی قوم۔

لیٹرا۔ قزاق۔ رہزن۔ بٹ مار۔

ہابیل۔ (ہا۔ بیل) (ع۔ ا۔ مذ) حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے کا نام ہے اس کے بھائی قابیل نے مار ڈالا تھا۔

ہاپیر۔ (۱) مذ) پیٹو۔ بہت کھانے والا۔ (۲) کما دکا ذخیرہ۔

ہاپس۔ (۱) مذ) بڑے بڑے پھینکے لگانا۔

ہانت۔ (۱) مذ) ہاتھ۔ عموماً نظر میں متعلق ہے۔

ہاتفت۔ (ہا۔ تفت) (ع۔ ا۔ مذ) غیب کی آواز۔ نولے سروش۔

غیب کی آواز دینے والا فرشتہ۔

ہاتفت غیب۔ (ع۔ ا۔ مذ) غیب کی آواز دینے والا فرشتہ۔ سروش۔

ہاتھ۔ (۱) مذ) دست۔ پنجہ۔ (۲) ہتھیلی۔ کف۔ (۳) آدھ گز کی مقدار۔ سرانگشت سے لے کر کسی تنگ کا حصہ (۴) بس قابو۔ اختیار۔ قبضہ۔ (۵) باعث۔ طینل۔ وسیلہ (۶) حفاظت۔

حمایت۔ (۷) مدد (۸) وار۔ حملہ۔ چوٹ (۹) داؤل (۱۰) قدرت۔ طاقت۔ قوت (۱۱) معرفت۔ ذریعہ۔ (۱۲) دھوکہ۔ شرارت۔ (۱۳) تماش کے پتے جو کسی کے حصے میں آئیں۔ بازی۔

ہاتھ باندھے کھڑا رہنا۔ (۱۔ محاورہ) حکم کا منتظر اور اطاعت کی واسطے تیار رہنا۔
 ہاتھ بٹانا۔ (۱۔ محاورہ) کسی کام میں شریک ہونا۔ بل کا کام کرنا۔ مدد دینا۔
 ہاتھ بٹھانا۔ (۱۔ محاورہ) اترے ہوئے ہاتھ کو درست کرنا۔ ہڈی کو ٹھیک جگہ پر جمانا۔
 ہاتھ بچانا۔ (۱۔ محاورہ) وار بچانا۔ ضرب نہ لگنے دینا۔
 ہاتھ بڑھانا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) ہاتھ آگے کرنا۔ (۲) حد سے بڑھنا۔ (۳) معمول سے زیادہ لینا۔ (۴) دخل بڑھانا۔ (۵) سوال کرنا۔ مانگنا۔ (۶) دست درازی کرنا۔
 ہاتھ بکنا۔ ہاتھوں بکنا۔ (۱۔ محاورہ) کسی کے ہاتھ فروخت ہونا۔ غلام بننا۔ (۲) بایع ہونا بیعیع ہونا۔ نوکر ہونا۔
 ہاتھ بند کرنا۔ (۱۔ محاورہ) دُعا کے لیے ہاتھ اٹھانا۔
 ہاتھ بندھ جانا۔ (۱۔ محاورہ) مجبور ہو جانا۔
 ہاتھ بندھ جانا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) ہاتھ تنگ ہونا۔ منغل ہونا۔ تنگ دست ہونا۔ (۲) ہاتھ رکا ہوا ہونا۔
 ہاتھ بھر۔ (۵۔ صفت) (۱) ایک ہاتھ کے برابر۔ دو بالشت۔ آدھ گز۔ (۲) رکتا بیٹھو سا۔
 ہاتھ بھرا پورا پڑنا۔ (۱۔ محاورہ) پورا وار پڑنا۔
 ہاتھ بھر جانا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) ہاتھ تنگ جانا۔ ہاتھ میں نمون آنا۔ ہاتھ سن ہو جانا۔ (۲) ہاتھ لہر جانا۔
 ہاتھ بھر کا (دل) کلیجا ہو جانا۔ (۱۔ محاورہ) دل بڑھ جانا۔ ہمت بڑھ جانا۔
 ہاتھ بھر کی زبان ہونا۔ (۱۔ محاورہ) زبان دراز اور گستاخ ہونا۔
 ہاتھ بہکنا۔ (۱۔ محاورہ) نشانہ چوکنا۔ نشانہ خطا جانا۔
 ہاتھ بھیجنا۔ (۱۔ محاورہ) کسی کے ذریعے بھیجنا۔
 ہاتھ بیٹھنا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) ہاتھ جمانا۔ خوب متنی ہونا۔ (۲) کاری زخم لگنا۔ (۳) ہاتھ کے جوڑ کا ٹھیک بیٹھنا۔
 ہاتھ بیچے ہیں مجھ ذات نہیں سچی۔ (۱۔ مثل) لوکری کی ہے۔ بڑا اجلا اور گالی گلوچ نہیں میں سے۔
 ہاتھ پانی لینا۔ (۱۔ محاورہ) طہارت کرنا۔ آب دست کرنا۔ پاخانہ پھرنے کے بعد ہاتھ وغیرہ دھونا۔
 ہاتھ پاؤں۔ (۱۔ مذ) (۱) دست و پا۔ (۲) ہمت کا کام کرنا۔ (۳) ملازم۔
 ہاتھ پاؤں باندھنا۔ (۱۔ محاورہ) مجبور کر دینا۔ لے لے کر دینا۔
 ہاتھ پاؤں بچانا۔ (۱۔ محاورہ) احتیاط اور ہوشیاری سے کوئی کام کرنا۔ (۲) کسی الزام یا بدنامی سے بچا رہنا۔ (۳) اپنے آپ کو محفوظ رکھنا۔
 ہاتھ پاؤں چپائے موڈی کو (ٹرخائے) ٹر کا تھے۔ (۱۔ مثل) حکمت عملی سے کام لے کر دشمن کو ایذا رسانی کا موقع نہ دینا چاہئے۔
 ہاتھ پاؤں بے قابو ہونا۔ (۱۔ محاورہ) کمزوری یا ضعف کے سبب ہاتھ پاؤں کا کام نہ کرنا۔

ہاتھ پاؤں پڑنا۔ (۱۔ محاورہ) منت سماجت کرنا۔ ہاتھوں کو چومنا اور قدموں پر گرنا۔
 ہاتھ پاؤں (بھول جانا) بھولنا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) ہاتھ پاؤں سوج جانا۔ چلنے پھرنے کی طاقت نہ رہنا۔ (۲) حواس باختہ ہونا۔ گھبرا جانا۔ ہکا بکا رہ جانا۔
 ہاتھ پاؤں پھیلانا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) کام بڑھانا۔ کام کو طول دینا۔ (۲) ترقی کرنا۔ (۳) غلبہ حاصل کرنا۔
 ہاتھ پاؤں سپینا۔ (۱۔ محاورہ) بے فائدہ کوشش کرنا۔
 ہاتھ پاؤں ٹوڑنا۔ (۱۔ محاورہ) ہاتھ پاؤں کو شدید ضرب پہنچا کر بیکار اور نکتا کر دینا۔ (۲) حالت نزع میں ہونا۔ (۳) ڈھل پلینا (۴) خوب محنت کرنا۔ (۵) کابلی سے کام نہ کرنا۔
 ہاتھ پاؤں تھکانا۔ (۱۔ محاورہ) بہت مشقت کرنا۔
 ہاتھ پاؤں تھک کے سخت ہونا۔ (۱۔ محاورہ) بہت مشقت کرنے سے ہاتھ پاؤں کا شکل ہو جانا۔
 ہاتھ پاؤں تھیک کرنا۔ (۱۔ محاورہ) کسی کو اسیا مارنا کہ بیکار ہو جائے۔
 ہاتھ پاؤں تیار ہونا۔ (۱۔ محاورہ) ہاتھ پاؤں ٹکڑے اور فیر ہونا۔
 ہاتھ پاؤں ٹوٹنا۔ (۱۔ محاورہ) ہاتھ پاؤں میں درد ہونا۔ اعضا ٹکنی ہونا۔ (۲) ہاتھ پاؤں کا شکستہ ہونا۔
 ہاتھ پاؤں ٹھنڈے سے پڑ جانا۔ (۱۔ محاورہ) ہاتھ پاؤں سرد پڑ جانا (سپاہی نامحرف سے)۔
 ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہونا۔ (۱۔ محاورہ) ہاتھ پاؤں میں گرمی نہ رہنا۔ مرنے کا وقت قریب ہونا۔ غشی کا عالم ہونا۔
 ہاتھ پاؤں جھوٹے پڑ جانا۔ (۱۔ محاورہ) ہاتھ پاؤں کا بیکار ہو کر کام نہ کرنا۔
 ہاتھ پاؤں چلنا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) ہاتھ پاؤں کا کام کرنا۔ کام کا ج کے قابل ہونا۔ (۲) ہاتھ پاؤں کا پھلنا نہ رہنا۔ پٹے بازی میں پھرتی کرنا۔ (۳) کشتی یا شناوری میں تیزی کرنا۔
 ہاتھ پاؤں چومنا۔ (۱۔ محاورہ) نہایت تعظیم اور تکریم کرنا۔ ہاتھوں اور پاؤں کو بوسہ دینا۔
 ہاتھ پاؤں داہنا۔ (۱۔ محاورہ) چپے کرنا۔ مشقت مالی کرنا۔ خدمت گزار۔
 ہاتھ پاؤں دھو کے چڑھ بیٹھنا۔ (۱۔ محاورہ) بیکار یا بیکار ہونا۔ (۲) عورت کی آبرو لینا۔
 ہاتھ پاؤں دیا سلائی بات کرنے کو فضل الہی۔ (۱۔ مثل) ہاتھ پاؤں میں توڑ نہیں نگر زبان خوب چلتی ہے۔
 ہاتھ پاؤں رانگلا نکلا ہو جانا۔ (۱۔ محاورہ) ہاتھ پاؤں شل ہو کر سرد ہو جانا۔
 ہاتھ پاؤں رہ جانا۔ (۱۔ محاورہ) ہاتھ پاؤں کلبے جس ہو جانا۔ فالج ہو جانا۔ ادھر تک ہو جانا۔
 ہاتھ پاؤں سرد ہونا۔ (۱۔ محاورہ) بیماری، خوف یا شدت درد سے

ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو جانا۔

ہاتھ پاؤں سنبھالنا۔ (۱- محاورہ) ہاتھ پاؤں نکلانا۔ خوب موٹا اور

قدر آور ہونا۔ (۲) ہاتھ پاؤں قابو میں کرنا۔ ہاتھ پاؤں روکنا۔

ہاتھ پاؤں سنسانا۔ (۱- محاورہ) ہاتھ پاؤں میں سنسانہٹ ہونا۔

ہاتھ پاؤں سے چھوٹنا۔ (۱- محاورہ) جھننے سے فراغت پانا۔ جن کر

نندرست ہو جانا۔ نیرتیت سے بچ جانا۔

ہاتھ پاؤں سیدھے کرنے۔ (۱- محاورہ) لبرٹ کر تھکاوٹ کو

دور کرنا۔

ہاتھ پاؤں شل ہو جانا۔ (۱- محاورہ) ہاتھ پاؤں کا تھک کر مضمحل

ہو جانا۔

ہاتھ پاؤں کا جواب دینا۔ (۱- محاورہ) بیماری یا بڑھاپے کے سبب

ہاتھ پاؤں کا کام نہ کرنا۔

ہاتھ پاؤں کہنے میں نہ ہونا۔ (۱- محاورہ) ضعف کی وجہ سے ہاتھ

پاؤں قابو میں نہ ہونا۔

ہاتھ پاؤں میں کابلی اور موچھیں منہ میں جا نہیں۔ (۱- مثل) ایسے

سست آدمی کی نسبت بولتے ہیں جسے اپنے ہونٹوں پر سے موچھیا

کا بٹنا بھی بار معلوم ہو۔ ایسی سستی جس سے اپنی جان بھی سنبھالی

جائے۔

ہاتھ پاؤں مارنا۔ (۱- محاورہ) ہاتھ پاؤں چلانا۔ (۲) مضطرب اور

بے قرار ہونا۔ (۳) نزع کی حالت میں ہونا۔ جان کنی کے عالم

میں ہونا۔ (۴) جان فشانی کرنا۔ جان توڑ کر کوئی کام کرنا۔ کوشش

کرنا۔ دوڑ دھوپ کرنا۔ (۵) کسی کام میں کابل فکر کرنا۔ (۶)

تیزنا۔ شناورمی کرنا۔

ہاتھ پاؤں میں سینچر ہونا۔ (۱- محاورہ) کوشش اور محنت لایا جانا۔

ہاتھ پاؤں میں سینچر سے۔ (۱- محاورہ) جس کے پاس روپ پیسہ

نہ ٹھہرے اور جس کے پاؤں میں پیکر ہواؤں کی نسبت کہتے ہیں۔

ہاتھ پاؤں نکلانا۔ (۱- محاورہ) ہاتھ منہ ہونا۔ جوان اور موٹا ہونا۔

(۲) حد سے بڑھ جانا۔ شرارت شروع کرنا۔ گھٹناخ ہونا۔

ہاتھ پاؤں مارنا۔ (۱- محاورہ) ہاتھ پاؤں میں طاقت نہ رہنا۔ (۲)

ہمت ہارنا۔

ہاتھ پاؤں ہلانا۔ (۱- محاورہ) ہاتھ پاؤں کو حرکت دینا۔ (۲) کوشش

کرنا۔ (۳) محنت و مشقت کرنا۔

ہاتھ پھرتلے آنا۔ ہاتھ پھرتلے دینا۔ (۱- محاورہ) نہایت مشکل

اور مصیبت میں پھینسا۔ بے بس ہونا۔ مجبور و ناچار ہونا۔

ہاتھ پھرتے نہ رکھنے دینا۔ (۱- محاورہ) کھوڑے کا سوار کو پاس

نہ آنے دینا۔ (۲) کسی بات پر راضی نہ ہونا۔ نہایت چالاک و شوخ

ہونا۔

ہاتھ پر۔ (۱- تابع فعل) ہاتھ کے اوپر۔ (۲) فوراً۔ اسی وقت۔

ہاتھ پر دھرا ہوا ہونا۔ (۱- محاورہ) کسی چیز کا تیار اور موجود ہونا۔ ہر وقت

پاس رہنا۔

ہاتھ پر سانپ کھلانا۔ (۱- محاورہ) جان جوکھوں کا کام کرنا۔ جان کو

خطے میں ڈالنا۔

ہاتھ پر سونا اچھالنا۔ (۱- محاورہ) امن و امان ہونا۔

ہاتھ پر سرسوں چھانا۔ (۱- محاورہ) مشکل کام کو فوراً انجام دینا۔ (۲) ہلسم

اور شعبہ بازی کر کے دکھانا۔

ہاتھ پر طوطا پالنا۔ (۱- محاورہ) ہاتھ پر پھوڑے بھنسی یا زخم کے سبب

کام چھوڑ دینا۔ زخم اچھا نہ ہونے دینا۔ (۲) اپنا ہاتھ زخمی کر دینا۔

ہاتھ پر قرآن (دھرنا) رکھنا۔ (۱- محاورہ) قرآن کی قسم کھانا۔ حلف

اٹھانا۔

ہاتھ پر گرم پیسہ رکھنا۔ (۱- محاورہ) پہلے زمانے کی سزا۔ پیسہ گرم

کر کے ملزم کے ہاتھ پر رکھا جاتا تھا۔

ہاتھ پر گنگا جلی رکھنا۔ (۱- محاورہ) گنگا کا پانی ہاتھ میں رکھ کر قسم کھانا۔

ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھنا۔ (۱- محاورہ) (۱) بیچارہ محض پھرنے لگا بیٹھ

رہنا۔ (۲) بائوس اور نا اُمید ہو کر بیٹھنا۔

ہاتھ پر ہاتھ رکھنا۔ (۱- محاورہ) ہاتھ کو ہاتھ سے مس کرنا۔ (۲) قول دینا۔

قول و قرار کرنا۔ (۳) شرط لگانا۔ بازی دینا۔

ہاتھ پر ہاتھ مارنا۔ (۱- محاورہ) (۱) شرط پڑنا۔ (۲) قول دینا۔ عہد و

پیمان کرنا۔ (۳) دھوکے سے کوئی چیز ہتھیالینا۔

ہاتھ پڑنا۔ (۱- محاورہ) (۱) مفت یا بے کوشش ہاتھ آنا۔ (۲) ہاتھ

کی ضرب لگنا۔ (۳) داؤں پڑنا۔ (۴) بس میں آنا۔ حاصل ہونا۔

(۵) مٹھی میں آنا۔ گرفت میں آنا۔ (۶) ہاتھ پڑنا۔ داؤں پڑنا۔

(۷) ہاتھ کا دفعہ مس ہونا۔

ہاتھ پیسہ مارنا۔ (۱- محاورہ) مانگنے کے لیے ہاتھ پھیلانا۔ گدائی کرنا۔

ہاتھ پیسہ سے جانا۔ (۱- محاورہ) (۱) ہاتھ پیسہ سے ہوتے جانا۔ (۲)

دینا سے خالی ہاتھ جانا۔

ہاتھ پکڑا دینا۔ (۱- محاورہ) (۱) کسی کو کسی کی حفاظت میں دے

دینا۔ (۲) کسی عورت کی شادی کر دینا۔

ہاتھ پکڑ کے پہنچا پکڑنا۔ (۱- محاورہ) تنخواہ ساسا سہارا پا کر زیادہ کا

طالب ہونا۔

ہاتھ پکڑنا۔ (۱- محاورہ) (۱) ہاتھ تھامنا۔ ہاتھ میں ہاتھ لینا۔ (۲)

دست گیری کرنا۔ مدد کرنا۔

ہاتھ پکڑ کے لے جانا۔ (۱- محاورہ) (۱) گرفتار کر کے لے جانا۔ مانوؤ

کر کے لے جانا۔ (۲) ہاتھ تھام کے لے جانا۔ (۳) رہنمائی کرنا۔

ہاتھ پکڑے کی لاج ہونا۔ (۱- محاورہ) ایک دفعہ جس کی مدد کرنا

ہمیشہ اس کی مدد کرتے جانا۔ ہمیشہ مہربانی کرتے جانا۔

ہاتھ پورا پڑنا۔ (۱- محاورہ) بھر پور ہاتھ بیٹھنا۔ کاری ضرب پڑنا۔

زور کا ہاتھ بیٹھنا۔

ہاتھ پھینچنا۔ (۱- محاورہ) دست رس ہونا۔ رسانی ہونا۔
 ہاتھ پھینکنا۔ (۱- محاورہ) سردی کی شدت سے ہاتھوں میں شکافت پڑ جانا۔
 ہاتھ پھیرنا۔ (۱- محاورہ) دست مالی کرنا۔ چمکانا۔ پیار کرنا۔ (۲) ٹوٹنا۔ ٹھکانا۔ ٹوٹنا۔ (۳) مساس کرنا۔ بوس و کنار۔
 ہاتھ پھیلنا۔ (۱- محاورہ) قرض۔ (۲) قرض دینا۔
 ہاتھ پھیلنا۔ (۱- محاورہ) دست سوال دراز کرنا۔ مانگنا۔
 ہاتھ پھینکنا۔ (۱- محاورہ) ہاتھ چلانا۔ ہاتھوں کا وار کرنا۔ (۲) ہاتھوں کو گردش دینا۔ پیکر دینا۔ (۳) ٹوٹنا۔ ٹوٹنا۔ ہاتھ مارنا۔ (۳) جلد جلد کھانا بڑے بڑے نوالے اناج جانا۔ (۵) سینے بازی کرنا۔ تلوار اور پتے کے ہاتھ ہلانا۔
 ہاتھ پھیلنے کرنا۔ (۱- محاورہ) غریبوں کی طرح بیاہ کر دینا۔
 ہاتھ پھینکنا۔ (۱- محاورہ) کسی کا محتاج ہونا۔ دست نگر ہونا۔
 ہاتھ تلکنا۔ (۱- محاورہ) ہاتھ کو گرم تیل میں ڈال کر تزل دینا۔ اگلے زلنے کی ایک سیدھ سننا۔
 ہاتھ تلے۔ (۱) تابع فعل۔ (۲) ماتحت۔ (۳) قبضے میں۔ قابو میں۔ (۴) قریب۔ نزدیک۔ پاس۔
 ہاتھ تنگ ہونا۔ (۱- محاورہ) مفلس ہونا۔ ناوار ہونا۔
 ہاتھ توڑ توڑ کے کھانا۔ (۱- محاورہ) مزیدار چیز کو کھا کر ہاتھوں کو چاٹنا۔
 ہاتھ تھامنا۔ (۱- محاورہ) گرتے ہوئے کو سنبھالنے کے لیے ہاتھ بڑھانا۔ (۲) ہاتھ میں ہاتھ لینا۔
 ہاتھ تھمنا۔ (۱- محاورہ) ہاتھ چھونا۔ (۲) ہاتھ کا پینا۔
 ہاتھ تھمنا۔ (۱- محاورہ) ہاتھوں کو حرکت دینے رہنا۔
 ہاتھ تھمنا۔ (۱- محاورہ) بے بس ہونا۔ مجبور ہونا۔ ناچار ہونا۔
 ہاتھ ٹوٹیں۔ (۱- محاورہ) خدا کرے ہاتھ کام کے نہ رہیں۔
 ہاتھ ٹھنڈی میں ڈالنا۔ (۱- محاورہ) خوشامد کرنا۔
 ہاتھ ٹھنڈا۔ (۱- محاورہ) سردی کی وجہ سے ہاتھوں کا سخت سرد ہوجانا۔
 ہاتھ ٹھہرانا۔ (۱- محاورہ) ہاتھ روکنا۔
 ہاتھ ٹھہرنا۔ (۱- محاورہ) کسی کام کی مشق ہونا۔
 ہاتھ ٹھیک کے اٹھنا۔ (۱- محاورہ) ضعف یا بڑھاپے کے باعث ہاتھوں پر زور دے کے کھڑے ہونا۔
 ہاتھ چڑھنا۔ (۱- محاورہ) وار کرنا۔ (۲) عقیدہ ماننا۔ دھب رسید کرنا۔
 ہاتھ (جگ) دل پر رکھنا۔ (۱- محاورہ) کمال بے قراری کا اظہار۔
 ہاتھ چرنا۔ (۱- محاورہ) ہاتھ بیٹھنا۔ مشق ہوجانا۔
 ہاتھ چوڑ دینا۔ (۱- محاورہ) ہر مان لینا۔ معافی مانگنا۔
 ہاتھ چوڑ کر کھڑا ہوجانا۔ (۱- محاورہ) دست بستہ کھڑا ہوجانا۔

ہاتھ جوڑ کر کہنا۔ (۱- محاورہ) منت و سماجت سے کہنا۔ نہایت ادب اور تعظیم سے گزارش کرنا۔
 ہاتھ جوڑنا۔ (۱- محاورہ) منت و سماجت کرنا۔ التجا کرنا۔ (۲) معافی مانگنا۔ توبہ کرنا۔ (۳) دور سے ہی سلام کرنا۔ پناہ مانگنا۔
 ہاتھ جھڑاٹھنے۔ (۱- محاورہ) سب کچھ ہار کر اٹھ کھڑے ہونے۔ مفلس و نادار ہونے۔
 ہاتھ جھڑاٹھنے کے جانا۔ (۱- محاورہ) خالی ہاتھ جانا۔
 ہاتھ جھڑاٹھنے کے کھڑے ہوجانا۔ (۱- محاورہ) اپنے پاس کچھ باقی نہ رکھنا۔ سب کچھ خرچ کر ڈالنا۔
 ہاتھ جھڑنا۔ (۱- محاورہ) ہاتھ کو جھٹکا دینا۔ (۲) ہاتھ خالی کرنا۔ (۳) ہاتھ مارنا۔ ضرب لگانا۔ وار کرنا۔ (۴) دست بردار ہونا۔ چھوڑنا۔
 ہاتھ جھٹکنا۔ (۱- محاورہ) ہاتھ کو جھٹکا دینا۔ کسی کے ہاتھ کو اپنے جسم سے جھینکنے کے ساتھ ہٹانا۔ پھڑکانا۔
 ہاتھ جھٹلانے آنا۔ (۱- محاورہ) خالی ہاتھ آنا۔ کچھ نہ لانا۔
 ہاتھ جھٹلانا۔ (۱- محاورہ) چلنے میں ہاتھ ہلانا۔ ہاتھوں کو ہلاتے ہوئے چلنا۔
 ہاتھ جھٹلانی۔ (۱- محاورہ) وہ روپیہ جو راہزن لوگ اپنی سرحد سے گزرنے کے لیے مسافروں سے لیتے تھے۔ (۲) وہ نقدی جو کہ زمیندار یا ملازمان سرکار راہ میں مسافروں سے لیتے تھے۔
 ہاتھ جھوٹا بڑھانا۔ (۱- محاورہ) وار خالی جانا۔ نشانے پر نہ بیٹھنا۔
 ہاتھ جھوٹا کرنا۔ (۱- محاورہ) کسی قدر کھانا۔ منہ جھٹلانا۔ اٹس کرنا۔ (۲) ایسا وار کرنا جو کافی نہ ہو۔
 ہاتھ جھوٹا ہوجانا۔ (۱- محاورہ) ہاتھ بیکار ہوجانا۔ کسی صدمے سے ہاتھ کا زور نہ کھا سنا۔ (۲) ہاتھ سُن ہو کر کام کے لائق نہ رہنا۔
 ہاتھ جھول (بڑھنا) جانا۔ (۱- محاورہ) ہاتھ لٹک پڑنا۔ ہاتھ کا جوڑے جدا ہونے لگنے لگنا۔
 ہاتھ چالاک۔ (۱- صفت) (۲) تیز دست۔ پھرنیلا۔ چابک دست۔ (۳) چور۔ اچکا۔ وہ شخص جسے چوری کا لپکا ہو۔
 ہاتھ چالاکھی۔ (۱- صفت) (۲) پھرنی۔ تیز دستی۔ چابک دستی۔ (۳) چوری کی عادت چوری۔
 ہاتھ چڑھا ہونا۔ (۱- محاورہ) خوب مشق ہونا۔ ہاتھ رواں ہونا۔
 ہاتھ چڑھنا۔ (۱- محاورہ) دست یاب ہونا۔ ہاتھ لگنا۔ ہلنا۔
 ہاتھ چلانا۔ (۱- محاورہ) دست درازی کرنا۔ مارنے کو ہاتھ بڑھانا۔ (۲) چوری کرنا۔ چڑانا۔ (۳) ہاتھ ہلائے جانا۔ ہاتھ پھیلنا نہ رکھنا۔ (۴) ہاتھ سے جلدی جلدی کام کرنا۔ (۵) وار کرنا۔
 ہاتھ چیلنا۔ (۱- محاورہ) خاطر خواہ آمدنی ہونا۔ فراغ حالی ہونا۔ (۲) ہاتھ کا مشاق ہونا۔ (۳) دست درازی ہونا۔ مارنے کو ہاتھ اٹھانا۔ (۴) ہاتھ کا بھلا نہ رہنا۔
 ہاتھ چھوٹا ہوجانا۔ (۱- محاورہ) بے دھوک مار بیٹھنے کی عادت ہونا۔

ہاتھ چلے نہ ہتیاں بٹھیا دے گتیاں۔ (۱۰) مثل (کام کاج ہو یا نہ ہو خدا ہر ایک کو روزی دیتا ہے۔ خدا اپا بچوں کو گھر بیٹھے رزق پہنچاتا ہے۔

ہاتھ چمکانا۔ (۱۱) عورتوں کا ہاتھ چمکانا نہیں کرنا۔ طعن و تشنیع کے وقت ہاتھ مٹکانا۔ سرکہ جگ میں تلوار کا ہلانا۔

ہاتھ چومنا۔ (۱۰) محاورہ (۱) تعظیم یا پیار سے ہاتھوں کو بوسہ دینا۔ دست بوس ہونا۔ (۲) کمال یا ہنرمندی وا دینا۔

ہاتھ چھوٹا ہونا۔ (۱۰) محاورہ بے دھڑک مار دینے کی عادت ہو جانا۔

ہاتھ حمال رکھنا۔ (۱۰) محاورہ کسی چیز کو ہاتھوں کے درمیان اس طرح رکھنا کہ ہاتھ اتر دگر وہیں۔

ہاتھ خالی جانا۔ (۱۰) محاورہ (۱) وار خالی جانا۔ نشانہ نہ بیٹھنا۔ (۲) پاس نہ پڑنا۔ (۳) حساب مراد نہ پڑنا۔ (۳) دینا سے نامراد جانا۔

ہاتھ خالی دینا۔ (۱۰) محاورہ حریت کی ضرب کو پڑنے نہ دینا۔ دشمن کا وارز کو دینا۔

ہاتھ خالی رہنا۔ (۱۰) محاورہ روپیہ پیسہ پاس نہ ہونا۔

ہاتھ خرچ سے تنگ ہونا۔ (۱۰) محاورہ خرچ پاس نہ ہونا۔

ہاتھ خالی نہ ہونا۔ (۱۰) محاورہ فرصت نہ ہونا۔

ہاتھ خشک ہو جانا۔ (۱۰) محاورہ ہاتھ کا سٹوٹھ جانا۔ ایک عارضہ جس سے ہاتھ خشک ہو کر بے حس و حرکت ہو جاتا ہے۔

ہاتھ دانستوں سے کاٹنا۔ (۱۰) محاورہ بے حد چھیننا۔ اپنی غلطی پر رنج غصہ کرنا۔

ہاتھ دراڑ کرنا۔ (۱۰) محاورہ ہاتھ بڑھانا۔ ہاتھ آگے کرنا۔ ہاتھ پھیلانا۔

(۲) دست درازی کرنا۔ مارنا۔ پٹینا۔

ہاتھ دکھانا۔ (۱۰) محاورہ نبض دکھانا۔ (۲) بخومی کو ہاتھ دکھا کر آئندہ کا حال دریافت کرنا۔ (۳) سپہ گری کے کزنب دکھانا۔

ہاتھ دوڑانا۔ (۱۰) محاورہ (۱) ہاتھ پھلانا۔ کام میں تیزی اور چستی دکھانا۔ (۲) ہاتھ بڑھانا۔ پکڑنے کی کوشش کرنا۔

ہاتھ دھرننا۔ (۱۰) محاورہ کسی چیز پر ہاتھ رکھنا۔ (۲) روکنا۔ پکڑنا۔ قابو کرنا۔ (۳) کسی کی حمایت یا مدد کرنا۔ (۴) منع کرنا۔ خاموش کرنا۔

ہاتھ دھلانا۔ (۱۰) محاورہ کسی دوسرے کے ہاتھوں پر پانی ڈالنا۔ (۲) شادی کے روز رسم کے طور پر دو لہما یا دلہن کے ہاتھوں پر پانی ڈالنا۔

ہاتھ دھلانی۔ (۱۰) مرث) ہاتھ دھلانے کا انعام جو دو لہما سے لیا جاتا ہے۔

ہاتھ دھو بیٹھنا۔ (۱۰) محاورہ (۱) نا اُمید ہونا۔ مایوس ہو جانا۔ کھو بیٹھنا۔

چھوڑ دینا۔ (۲) قطع تعلق کر دینا۔ دست بردار ہونا۔

ہاتھ دھو کر پیچھے پڑنا۔ (۱۰) محاورہ (۱) سارے کام چھوڑ کر ایک کام کے سر ہونا۔ (۲) درپے آزار ہونا۔

ہاتھ دھونا۔ (۱۰) محاورہ (۱) پانی سے ہاتھ صاف کرنا۔ (۲) طہارت کرنا۔ (۳) آس توڑ بیٹھنا۔

ہاتھ دے دے مارنا۔ (۱۰) محاورہ غصہ یا نزع کی حالت میں اپنے ہاتھوں کو متواتر ٹپکنا۔

ہاتھ دیکھنا۔ (۱۰) محاورہ (۱) نبض دیکھنا۔ (۲) دست بگر ہونا۔ کسی کی جستجوش کا منتظر ہونا۔ (۳) کسی کی قسمت کا حال ہاتھ کی لکیریں دیکھ کر دینا۔

ہاتھ دینا۔ (۱۰) محاورہ (۱) مصافحہ کرنا۔ ہاتھ سے ہاتھ ملانا۔ (۲) وا دینا۔ وا مانگنا۔ (۳) قول دینا۔ زبان دینا۔ (۴) گل کرنا۔ بگھاننا۔ (۵) مدد دینا۔ سہارا دینا۔ (۶) دکاندار کا نعلے کو اوپر نیچے کر دینا۔ (۷) کسی چیز کو قبول کرنا۔ (۸) چمپک کے دانوں کا مڑھنا جانا۔ (۹) چابک سوار کا پڑے کے نیچے ہاتھ ڈال کر سودا کرنا۔ دکان داروں کا ایک دوسرے کے ساتھ اسی طرح معاملہ کرنا۔ (۱۰) چالاکی کرنا۔ (۱۱) حوالے کرنا۔

ہاتھ ڈالنا۔ (۱۰) محاورہ کسی چیز میں ہاتھ ڈالنا۔ ہاتھ داخل کرنا۔ (۲) دخل دینا۔ کام میں پڑنا۔ کوئی کام اپنے ذمے لینا۔ (۳) دست درازی کرنا۔ پھیلنا۔ (۴) ٹوٹنا۔ غارتگری کرنا۔ (۵) ہاتھ لگانا۔ سس کرنا۔ (۶) کسی کام کو شروع کرنا۔ (۷) پڑنا۔ پکڑنے کا ارادہ کرنا۔

ہاتھ ڈالو کر ڈنگالو۔ (۱۰) مثل (محنت کرو مرنے سے بچنا۔

ہاتھ لڑنا۔ (۱۰) محاورہ کسی کام کے کرنے سے بچنا۔ (۲) وار بچنا۔

ہاتھ رکھنا۔ (۱۰) محاورہ (۱) ہاتھ دھرننا۔ (۲) ہاتھ سے کسی چیز کا منہ بند رکھنا۔ روکنا۔ ختمنا۔ (۳) قسم کھانا کسی عزیز سے ہاتھ رکھ کر۔ (۴) مدد کرنا۔ سہارا دینا۔ (۵) ہاتھ سے چھوٹنا۔ (۶) بچانا۔ حفاظت کرنا۔ (۷) تسلی دینا۔ (۸) سلام کرنا۔ (۹) چمپ کرنا۔ بات نہ کرنے دینا۔ (۱۰) تعظیم کرنا (چھاتی پر)

ہاتھ رکھنا۔ (۱۰) محاورہ (۱) ہاتھوں میں ہندی لگانا۔ کسی شے سے ہاتھوں کو رنگین کرنا۔ (۲) مال مارنا۔ رشوت لینا۔ مٹھی گرم کرنا۔

ہاتھ رواں کرنا۔ (۱۰) محاورہ (۱) کسی کام کی ہاتھ سے مشق کرنا۔ ہاتھ صاف کرنا۔ (۲) مارنا۔ قتل کرنا۔

ہاتھ رواں ہونا۔ (۱۰) محاورہ ہاتھ کا مشتاق ہونا۔ خوب ہاتھ چیننا۔

ہاتھ روکنا۔ (۱۰) محاورہ (۱) کفایت شعاری کرنا۔ کم خرچ کرنا۔ (۲) باز رہنا۔ دست کش ہونا۔ (۳) وار روکنا۔ وار بچانا۔

ہاتھ رہ جانا۔ (۱۰) محاورہ ہاتھ تھک جانا۔ ہاتھ شل ہو جانا۔

ہاتھ زبردست خدراں رہنا۔ (۱۰) محاورہ ٹھوڑی کے نیچے ہاتھ رہنا۔ سوچ میں رہنا۔

ہاتھ سادھنا۔ (۱۰) محاورہ ہاتھ صاف کرنا۔ مشق کرنا۔

ہاتھ سانسنا۔ (۱۰) محاورہ ہاتھ بھرننا۔ ہاتھ آلودہ کرنا۔

ہاتھ سر پر پھیرنا۔ (۱۰) محاورہ شفقت سے کف دست کسی کے سر پر پھیرنا۔

ہاتھ سر پر دھر کے رونا۔ (۱۰) محاورہ سر پکڑ کے رونا۔ بہت افسوس کرنا۔ بہت پھپھانا۔

ہاتھ سر پر رکھنا۔ (۱- محاورہ) (۱) حمایت کرنا۔ مرقی بننا۔ مددگار بننا۔
(۲) پیار کرنا (۳) کسی کے سر کی قسم کھانا۔ (۴) سلام کرنا۔ ہاتھ پر
ہاتھ رکھنا۔

ہاتھ سر کاٹنا (۱- محاورہ) آہستہ سے ہاتھ ہٹانا۔
ہاتھ سپیشا۔ (۱- محاورہ) (۱) ہاتھ کبیرنا۔ ہاتھ بند کرنا۔ (۲) دینے سے
ہاتھ روکنا۔ بخشش بند کرنا۔
ہاتھ سن ہو جانا۔ (۱- محاورہ) ہاتھ کا کام نہ دے سکتا۔ ہاتھ میں خون کی
روانی بند ہو جانا۔

ہاتھ سے۔ (تابع فعل) (۱) ذریعے سے۔ (۲) سبب سے (۳) ذات
سے۔ دم سے۔ (۴) قابو سے۔ گرفت سے۔
ہاتھ سے بچنا۔ (۱- محاورہ) سلامت رہنا۔ زندہ رہنا۔
ہاتھ سے ہینگ آنا۔ (۱- محاورہ) کسی کے افعال اور شرارتوں سے
عاجز آنا۔

ہاتھ سے جانا رہنا۔ (۱- محاورہ) (۱) قابو سے نکل جانا۔ بس میں نہ رہنا۔
(۲) آپے سے باہر ہو جانا۔ خود رفتہ ہو جانا۔ (۳) مرجانا۔ انتقال
کر جانا۔

ہاتھ سے چھوٹنا۔ (۱- محاورہ) قابو سے نکل جانا۔ گرفت سے نکلنا۔
ہاتھ سے دل چھیلنا (جانا) (۱- محاورہ) عاشق ہونا۔ فریفتہ ہونا۔
ہاتھ سے دے بیٹھنا۔ (۱- محاورہ) (۱) کھو بیٹھنا۔ گنوا دینا۔ ضائع
کرنا۔ (۲) قابو میں نہ رکھنا۔ قبضہ چھوڑ بیٹھنا۔
ہاتھ سے دینا۔ (۱- محاورہ) (۱) بخشنا۔ دینا۔ عطا کرنا۔ (۲) چھوڑنا۔ ترک
کرنا۔ قبضہ چھوڑنا۔ (۳) ضائع کرنا۔ کھونا۔
ہاتھ سے سلام لینا۔ (۱- محاورہ) سلام کا جواب ہاتھ کے اشارے
سے دینا۔

ہاتھ سے کام نکلنا۔ (۱- محاورہ) (۱) کسی کام کا تجربہ ہونا۔ کوئی کام ہاتھ
سے کیا جانا۔ (۲) کسی کام کا قبضہ سے نکلنا۔ (۳) کسی کے ذریعے سے
کوئی کام پورا ہونا۔

ہاتھ سے کھونا۔ (۱- محاورہ) کسی چیز کا اپنے پاس سے نکل جانا (۲) ہمتی
چیز نہ لینا۔

ہاتھ سے نالان ہونا۔ (۱- محاورہ) کسی سے بہت تنگ ہونا
ہاتھ سے نکلنا۔ (۱- محاورہ) قابو سے باہر ہونا۔

ہاتھ سے نہ دینا۔ (۱- محاورہ) قابو سے نہ نکلنے دینا۔
ہاتھ سے ہاتھ ملانا۔ (۱- محاورہ) مصافحہ کرنا۔ (۲) پتہ کشتی کرنا۔ ہاتھ
سے ہاتھ پکڑ کر زور دینا۔ (۳) پہلو انوں کا کشتی سے پہلے آپس
میں ہاتھ ملانا۔

ہاتھ سے ہاتھ ملنا۔ (۱- محاورہ) افسوس کرنا۔ پچھتانا۔
ہاتھ سیدھا مارنا۔ (۱- محاورہ) سیدھا وار کرنا۔

ہاتھ شغل ہو جانا۔ (۱- محاورہ) ہاتھ تنگ جانا۔ ہاتھ کا کام کرنے
کے قابل نہ رہنا۔

ہاتھ صاف کرنا۔ (۱- محاورہ) (۱) مشق کرنا۔ ہاتھ سے کوئی کام نکلنا
ہاتھ رواں کرنا۔ (۲) خط سنوارنا۔ مشق کرنا۔ (۳) ہاتھ دھونا۔ ہاتھ
پاک کرنا۔ (۴) ہاتھ مارنا۔ قتل کرنا۔ ہلاک کرنا۔ (۵) غارت کرنا۔
ٹوٹنا۔ (۶) خرچ کرنا۔ اڑانا۔

ہاتھ طوق کمر ہونا۔ (۱- محاورہ) کسی کی کمر کے گرد ہاتھ ڈالنا۔
ہاتھ طوق کلو کرنا۔ (۱- محاورہ) ہاتھ میں گلے میں ڈالنا۔
ہاتھ قبضے پر ڈالنا۔ (۱- محاورہ) تلوار سونقنا۔ تلوار کھینچنا۔ قتل کرنے کا
ارادہ کرنا۔ آمادہ قتل ہونا۔

ہاتھ قلم کرنا۔ (۱- محاورہ) ہاتھ کاٹنا۔ ہاتھ اڑانا۔
ہاتھ کا۔ (۱- صفت) (۱) اپنا۔ خود کا (۲) ہاتھ کا دیا ہوا۔ ہاتھ کا بنا ہوا۔
ہاتھ کا لکھا ہوا۔

ہاتھ کاٹ دینا۔ (۱- محاورہ) (۱) ہاتھ قلم کر دینا (۲) تحریر لے لیا۔
دستاویز لے لینا۔ (۳) بے اختیار کر دینا۔

ہاتھ کاٹنا۔ (۱- محاورہ) (۱) ہاتھ قلم کرنا (۲) افسوس کرنا۔ پچھتانا۔ (۳)
نہایت غصے میں اپنے ہاتھوں کو دانٹوں میں پکڑنا۔
ہاتھ کا چھوٹنا۔ (۱- صفت) (۱) دہندہ۔ جو لے کر نہ دے۔ بد معاملہ۔ خائن۔

ہاتھ کا چالاک ہونا۔ (۱- محاورہ) دست دراز ہونا۔ مشاق ہونا۔

ہاتھ کا چوبہا بل میں بیٹھنا۔ (۱- مثل) جو پاس تھا وہ بھی گنوا دیا۔
ہاتھ کا دینا پیر بسانا۔ (۱- محاورہ) فرض سے کہ دشمنی پیدا کرنا۔

ہاتھ کا دیا۔ (۱- مذ) وان۔ پن۔ نیہارت۔ سخاوت۔ بخشش۔
ہاتھ کا دیا آڑے آوے۔ (۱- مثل) کسی وقت کی نیرات کام آ
جاتی ہے۔ نیرات ہی مصیبت کی روک تھام کرتی ہے۔

ہاتھ کا دیا ہاتھ چلے گا۔ (۱- مثل) فقیروں کی صدائے نیرات گن ہوں کی
بخشش کا سبب بنے گی۔

ہاتھ کا دیا ہاتھ کھانے لگا۔ (۱- مثل) کینے آدمی بھی برابر ہی آدمی
کرنے لگے۔

ہاتھ کا سٹیجا۔ (۱- صفت) دیانت دار خوش معاملہ۔ ساکھ والا۔ لیس

ہاتھ کا کھرا۔ (۱- مذ) (۱) بیل کھیل جو ہاتھ سے اترے (۲) بے اصل
چیز۔ بے حقیقت چیز۔ (۳) مجازاً روپیہ پیسہ۔ مال و زر۔

ہاتھ کا کان سے نیکی۔ (۱- صفت) جس کے پاس کوئی زیور نہ ہو۔ جس
نے کوئی زیور نہ پہنا ہوا ہو۔

ہاتھ کا پینا۔ (۱- محاورہ) ہاتھ میں رعشہ آنا۔ ہاتھ تھرا نا۔
ہاتھ کا نول پر رکھنا۔ (۱- محاورہ) بالکل لاعلمی نظر ہر کرنا۔ نا آشنائی اور
ناواقفیت نظر ہر کرنا۔

ہاتھ کٹ جانا۔ (۱- محاورہ) (۱) ہاتھ میں زخم آ جانا (۲) ہاتھ قلم ہو جانا۔
(۳) اپنے ہاتھ کی تحریر دے دینا۔

ہاتھ کٹ چلے۔ (۱- محاورہ) اپنے ہاتھ کی تحریر دے بیٹھے۔
ہاتھ کٹنا۔ (۱- محاورہ) (۱) ہاتھ کاٹنا جانا۔ (۲) تحریر دی جانا۔

ہاتھ کھٹے ہونا۔ (۱- محاورہ) تحریر دے جانے کی وجہ سے مجبور ہونا۔
 ہاتھ کرنا۔ (۱- محاورہ) (۱) حملہ کرنا۔ وار کرنا۔ (۲) دھوکہ دینا۔
 ہاتھ کمر بند رکھنے ہونا۔ (۱- محاورہ) بیکار رکھتے پھرنا۔
 ہاتھ کشیدہ آسمان دیدہ۔ (۱- شش) برحواس۔ وہ آدمی جس کا خیال
 نہیں اور ہوا اور ہاتھ کچھ اور کر رہا ہو۔
 ہاتھ کمر میں ڈالنا۔ (۱- محاورہ) لڑنا۔ جھگڑنا۔
 ہاتھ ننگن کو آبرسی کیا۔ (۱- شش) جو کچھ ظاہر و عیاں ہے۔ اس کے
 بیان کرنے کی ضرورت ہی کیا۔
 ہاتھ کو ہاتھ پھیلتا ہے۔ (۱- شش) جس سے کہتے ہیں اسی کو دیتے ہیں۔
 ہاتھ کو ہاتھ نہیں سوجھتا۔ ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہیں دیتا۔ (۱- محاورہ)
 اندھیرا اٹھ پ ہے۔ بہت سخت اندھیر ہے۔
 ہاتھ کھانا۔ (۱- محاورہ) تلوار کے وار کھانا۔
 ہاتھ کھیلانا۔ (۱- محاورہ) (۱) ہاتھ میں غارش ہونا۔ (۲) مارنے پیلنے کو
 جی چاہنا۔ کچھ طے کی امید ہونا۔
 ہاتھ کھلا رہنا۔ (۱- محاورہ) عیاضی کی عادت ہونا۔ داود و شش میں
 مشاقی ہونا۔
 ہاتھ کھل جانا۔ کھلنا۔ (۱- محاورہ) (۱) ہاتھ چلنا۔ ہاتھ کا کام کرنے لگنا۔
 (۲) تنگی نہ رہنا۔ روپیہ پیسہ ہاتھ میں آنا۔ (۳) مار بیٹھنے کی عادت
 پڑ جانا۔
 ہاتھ کھینچ لینا۔ ہاتھ کھینچنا۔ (۱- محاورہ) (۱) دست بردار ہونا۔ باز آنا۔
 ہاتھ اٹھانا۔ (۲) کسی کام سے ہاتھ روک لینا۔
 ہاتھ کی آبی بھی نہی۔ (۱- محاورہ) قابو میں آتی ہوئی چیز بھی گئی۔
 ہاتھ کے اوپر ہاتھ دھرے بیٹھنا۔ (۱- محاورہ) بیکار ہونا۔ کوئی شغل
 نہ ہونا۔
 ہاتھ کے برہنہ کھانا۔ (۱- محاورہ) کسی سے سخت نفرت کرنا۔
 ہاتھ کی پٹیہ دانٹوں سے کاٹنا۔ (۱- محاورہ) کسی چیز کے نسلنے پر
 سخت افسوس کرنا۔
 ہاتھ کی چھڑی۔ (۱- مصنف) ہاتھ میں رکھنے کی لکڑی۔
 ہاتھ کی روٹی۔ (۱- مش) توڑے پر پکائی ہوئی روٹی۔
 ہاتھ کی صفائی۔ ہاتھوں کی صفائی۔ (۱- صفت) (۱) وار کرنے میں
 ہاتھوں کا مشاق ہونا۔ (۲) بازیگر یا شہدہ باز کے ہاتھ کا کرتب۔
 ہاتھوں کے طوطے اٹھانا۔ (۱- محاورہ) حواس باختہ ہو جانا۔ کوئی
 چیز دیکھ کر یا سن کر بے حواس ہو جانا۔
 ہاتھ (ہاتھوں) کی لکیریں۔ (۱- مش) (۱) وہ گھرے نقوش جو انسان
 کی ہتھیلی میں ہوتے ہیں۔ قسمت کی لکیریں۔ (۲) عزیز۔ یگانے۔
 قرابتی۔
 ہاتھ کی لکیریں ٹھنا۔ (۱- محاورہ) محبت جاتی رہنا۔ قرابت یا رشتہ کا
 محاذ ٹھنا۔ اپنائیت اور عزیز داری کا محاذ نہ ہونا۔ (۲) نقتیر
 کا کھنا ٹھنا۔

ہاتھ کی مچھلی۔ (۱- مش) انگوٹھے سے نیسے ہتھیلی کا اچھا ہوا گوشت۔
 ہاتھ کے میسے آنا۔ (۱- محاورہ) ہتھے چڑھنا۔ قابو میں آنا۔ قبضہ ہو
 جانا۔ دخل ہو جانا۔
 ہاتھ کے ہاتھ۔ (۱- تابع فعل) فوراً۔ اسی وقت۔
 ہاتھ گاڑی۔ (۱- مش) رکشا۔ ٹھیلہ۔ وہ گاڑی جسے ہاتھ سے کھینچ کر
 چلاتے ہیں۔
 ہاتھ گردن میں ڈالنا۔ ہاتھ گلے میں ڈالنا۔ (۱- محاورہ) گلے میں باہیں
 ڈالنا۔ پیار کرنا۔ اختلاط کرنا۔
 ہاتھ گریبان تک جانا۔ (۱- محاورہ) گریبان پھاڑ ڈالنا۔ وحشت کا دور
 پکڑنا۔
 ہاتھ گشنا۔ (۱- مع مرکب) (۱) نہایت سردی کے باعث ہاتھ کے گوشت
 کا ٹھہرنا۔ (۲) پھوڑوں یا زخموں سے ہاتھ کے گوشت کا ٹھہرنا۔
 ہاتھ گھسانا۔ (۱- محاورہ) بے فائدہ محنت کرنا۔ لا حاصل کام کرنا۔
 ہاتھ گھسانی۔ (۱- مش) وہ محنت جس سے کچھ حاصل نہ ہو۔
 ہاتھ گھس جانا۔ (۱- محاورہ) ہاتھوں سے اٹنا کام لینا کہ انہیں ضرر پہنچے۔
 ہاتھ گھسکھوں۔ (۱- محاورہ) پانی کے طرف میں ہاتھ ڈال کر پانی کو
 حرکت دینا۔
 ہاتھ لا۔ ہاتھ لانا۔ (کلمہ تعریف) واہ وا۔ کیا کہنہ ہے۔ آفرین ہے۔
 مرجبا۔ شتاباش۔ (۲) داو دینے کے موقع پر بھی کہتے ہیں۔
 ہاتھ لال کرنا۔ (۱- محاورہ) کنہشہ الزام لینا۔ تیش کرنا۔
 ہاتھ لیک۔ (۱- صفت) چور۔ اچکا۔ اٹھائی گیا۔
 ہاتھ لپکانا۔ (۱- محاورہ) ہاتھ بڑھانا۔
 ہاتھ لگانا۔ (۱- محاورہ) (۱) پھونانا۔ مس کرنا۔ ہاتھ پھیرنا (۲) پھیرنا۔ دست
 درازی کرنا۔ (۳) مدد کرنا۔ سہارا دینا (۴) کام شروع کرنا۔ (۵)
 ہاتھ مارنا۔ ضرب لگانا۔ مارنا۔ پٹینا۔ (۶) بازی لگانا۔ شرط بدنا۔
 (۷) تول دینا۔ (۸) تیرنے میں ہاتھ چلانا۔
 ہاتھ لگائے کھلانا۔ (۱- محاورہ) نہایت نازک ہونا۔
 ہاتھ لگائے (لگے) ٹھیلنا ہونا۔ (۱- شش) نہایت سفید۔ اُجلا۔ آبدار
 ہونا۔ نہایت لطیف اور پاکیزہ ہونا۔
 ہاتھ لگنا۔ (۱) چھوا جانا۔ مس ہونا۔ (۲) ملنا۔ حاصل ہونا۔ دستیاب ہونا۔
 (۳) قابو چڑھنا۔ بس میں آنا۔ (۴) سہارا ملنا (۵) کام شروع ہونا۔
 (۶) بازی بڑھانا۔ شرط ہونا۔
 ہاتھ لیا کاٹنا تو بھیک کا کیا سانس۔ (۱- مش) جب گدائی اختیار
 کر لی تو پھر ملنے میں کیا شرم۔
 ہاتھ لینا۔ (۱- محاورہ) ٹھانا۔ روکنا۔ پکڑنا۔
 ہاتھ مارنا۔ (۱- محاورہ) (۱) ہاتھ لگانا۔ ضرب لگانا۔ (۲) جلد جلد نوالے
 کھانا۔ (۳) فہن کرنا۔ مال اڑانا (۴) شرط لگانا (۵) رشوت لینا۔
 (۶) قبضہ کر لینا۔ قابض ہونا (۷) قتل کرنا۔ ذبح کرنا۔ ہاتھ صاف
 کرنا۔ (۸) اقرار کرنا۔ قول دینا۔

ہاتھ ماں نہ گات ماں میں دھنونی جات ماں (۱- مثل) نہ میرے ہاتھ میں ہنر ہے نہ بدن میں جو ہر میں تو اپنی اعلیٰ ذات کے سبب امیر ہوں۔ بے سلیقہ کا اپنی ذات پر گھمنڈ کرنا۔

ہاتھ مروڑنا۔ (۱- محاورہ) ہاتھ کو بیچ دینا۔ ہاتھ کو بل دینا۔ ہاتھ ملانا۔ (۱- محاورہ) مصافحہ کرنا۔ پتہ لڑانا۔ ہاتھ سے ہاتھ کچڑ کر زور کرنا۔ ہاتھ کلتے رہ جانا۔ (۱- محاورہ) پچھتاتے رہ جانا۔ افسوس کرنے رہ جانا۔ ہاتھ ملنا۔ (۱- محاورہ) افسوس کرنا۔ پچھتانا۔ ہاتھ منہ پر رکھ دینا۔ (۱- محاورہ) بولنے نہ دینا۔ خاموش کر دینا۔ ہاتھ منہ پر سے نہیں اترے۔ (۱- مثل) ابھی نئی ڈاہن ہے۔ شرم و حیا کے دن ہیں۔ ابھی گھونگھٹ کا زمانہ ہے۔ ہاتھ منہ دھلانا۔ (۱- محاورہ) خدمت گار کا کام کرنا۔ ہاتھ میں۔ (۱- تابع فعل) (۱) قبضے میں۔ اختیار میں۔ (۲) ہاتھ کے اندر۔ منگھی میں۔ ہاتھ میں آنا۔ (۱- محاورہ) (۱) حاصل ہونا۔ ہاتھ لگنا (۲) قبضہ میں آنا قابو میں آنا۔ (۳) دستیاب ہونا۔ بہم پہنچنا۔ ہاتھ میں پڑ جانا۔ (۱- محاورہ) قابو میں آجانا۔ ہاتھ میں آجانا۔ ہاتھ میں ٹھیکرا دینا۔ (۱- محاورہ) ہیکے منگولانا۔ مفلس کر دینا۔ ہاتھ میں جو ہر ہونا۔ (۱- محاورہ) صاحب کمال ہونا۔ ہنر مند ہونا۔ ہاتھ میں دل رکھنا۔ (۱- محاورہ) کسی کی ہر طرح و جگہ کی کرنا۔ خاطر واری کرنا۔ دلداری کرنا۔ ہاتھ میں دے روئی اور سر پر مارے جو جوتی۔ (۱- مثل) ایسے کم ظرف کی نسبت بولتے ہیں جو احسان کر کے بار بار جتنائے۔ ہاتھ میں سرمئی بغل میں کھرتی۔ (۱- مثل) نظا ہر میں نیک اور باطن میں دغا باز۔ ہاتھ میں سیخچہ ہونا۔ (۱- محاورہ) ہر وقت چیزوں کو توڑتے پھوڑتے رہنا۔ (۲) تنگ دست ہونا۔ غریب ہو جانا۔ ہاتھ میں گھسیان ہونا۔ (۱- محاورہ) کسی کے ظلم کا فریادی ہونا۔ نظا ہر قابو پانے کا کنیا ہے۔ ہاتھ میں لانا یا بات میں گھسانا۔ (۱- مثل) جو کمانا سوکھا لینا۔ ایب مفلس ہونا کہ گھر میں برتن تک نہ رہنا۔ ہاتھ میں لیا کا نسا تو بھیک کا کیا سانس۔ (۱- مثل) دیکھیے ہاتھ لیا کا نسا۔ ہاتھ میں لینا۔ (۱- محاورہ) کوئی کام اپنے ذمے لینا۔ ہاتھ میں لیے پھرتا۔ (۱- محاورہ) (۱) ہاتھ میں دبائے پھرتا۔ (۲) فتنہ میں سخت بیناب ہونا۔ ہاتھ میں ہاتھ دینا۔ (۱- محاورہ) (۱) کسی کو کسی کے بہرہ و کرنا (۲) بیبا دینا۔ عورت کا مرد سے نکاح کر دینا (۳) ہاتھ ملانا۔ مصافحہ کرنا۔ ہاتھ میں ہاتھ ہونا۔ (۱- محاورہ) ساتھ ساتھ ہونا۔ ہاتھ میں ہونا۔ (۱- محاورہ) قبضے میں ہونا۔ اختیار میں ہونا۔ (۲) سونچنا

ہاتھ بٹھانا۔ (۱- محاورہ) ہاتھ مڑکا مڑکا کر ہاتھ کرنا یا لڑنا۔ ہاتھ بٹھلنا ہونا۔ (۱- محاورہ) ہاتھ کاٹنے بڑی میں مشتاق ہونا۔ ہاتھ بٹھرا آنا۔ (۱- محاورہ) (۱) کپڑا نہ جانا۔ (۲) قابو میں نہ آنا۔ (۳) حاصل نہ ہونا۔ کسی چیز کا نہ ملنا۔ ہاتھ نہ پڑنا۔ (۱- محاورہ) کام نہ ہو سکا۔ کامیابی نہ ہونا۔ ہاتھ نہ پہنچنا۔ (۱- محاورہ) کام میں کامیاب نہ ہو سکا۔ (۲) کسی جگہ ہاتھ نہ جاسکا۔ ہاتھ نہ رکھنے) دھرنے دینا۔ (۱- محاورہ) پاس نہ آنے دینا۔ ہاتھ نہ لگانے دینا۔ (۳) پروا نہ کرنا۔ خاطر میں نہ لانا۔ (۴) قابو میں نہ آنا۔ (۵) بدمزاج ہونا۔ روکھا ہونا۔ ہاتھ نہ لگانے میں پیار کے ڈالے۔ (۱- مثل) کم ظرف اور ذرا سی بات پر اڑانے والے کی نسبت عورتیں بولتی ہیں۔ ہاتھ نہ لگانا۔ (۱- محاورہ) (۱) ہاتھ سے نہ چھوٹنا۔ احتراز کرنا۔ (۲) مارنے سے باز رہنا۔ (۳) بچنے کو تہیہ نہ کرنا۔ (۴) خاطر میں نہ لانا۔ بات نہ کرنا۔ ہاتھ نہ لگانے دینا۔ (۱- محاورہ) چھوٹے نہ دینا۔ عورت کا مرد کو پاس نہ آنے دینا۔ ہاتھ نہ منگھی لیلانی منگھی۔ (۱- مثل) پاس کوڑھی نہیں ہوصد دکھانے میں بڑی گرم جوشی۔ ہاتھ ہلانے آنا۔ (۱- محاورہ) (۱) خالی ہاتھ آنا۔ (۲) کچھ کما کر نہ لانا۔ ہاتھ ہلنا۔ ہاتھ میں جنبش ہونا۔ ہاتھ میں رعشہ ہونا۔ ہاتھ ہونا۔ (۱- محاورہ) اتفاق ہونا۔ دخل ہونا۔ ہاتھ ہے۔ (۱- محاورہ) اختیار میں ہے۔ ہاتھوں۔ (۱- مذ) (۱) سبب۔ باعث۔ کارن۔ (۲) ہاتھ سے۔ ہاتھوں سے۔ (۳) وسیلے سے۔ ذریعے سے۔ توسط سے۔ ہاتھوں اچکنا۔ (۱- محاورہ) (۱) آدمی یا جانور یا کسی چیز کا بہت اوجھا اچھلنا۔ ہاتھوں اچھلنا۔ (۱- محاورہ) (۱) بہت تڑپنا۔ بہت زیادہ بے قرار ہونا۔ (۲) نہایت کو دنا۔ بہت اچھلنا۔ ہاتھوں بڑھ جانا۔ (۱- محاورہ) بہت بڑھ جانا۔ ہاتھوں پر سانس بکھلانا۔ (۱- محاورہ) (۱) خطرناک کام کرنا (۲) مزاج آدمی کو راضی رکھنے کی کوشش کرنا۔ ہاتھوں چھاؤں رکھنا (کرنا) (۱- محاورہ) نہایت حفاظت کیساتھ رکھنا۔ ہاتھوں دل بڑھانا۔ (۱- محاورہ) بہت بہت بڑھانا۔ بڑا حوصلہ دلانا۔ ہاتھوں سے۔ (۱- تابع فعل) (۱) فعلوں سے۔ (۲) ڈھنگوں سے۔ (۳) ذریعہ۔ وسالت سے۔ ہاتھوں سے کھلے تو دانت کیوں لگائے۔ (۱- مثل) جو کام آسانی سے ہو سکے اس میں دقت اٹھانے کی کیا ضرورت ہے۔ ہاتھوں فلم ہونا۔ (۱- محاورہ) بڑا ہی بھلائی کسی کے اختیار میں ہونا۔

باشمبی - (باش - می) [ع - صفت] ہاشم کی طرف نسبت رکھنے والا۔
 ہاشم کی اولاد۔
 ہاضم - (ہاض - م) [ع - صفت] (۱) ہضم کرنے والا۔ پچانے والا۔ (۲) تسلیل
 کھانے والا۔ یقین۔
 ہاضمہ - (ہاض - مض) [ع - ۱ - مرث] ہضم کرنے کی قوت۔
 ہاف - (Half) [انگ - صفت] نصف۔ آواہ۔
 ہاک - (قی - ۱ - مرث) [انگ - آواز۔
 ہاکر - (Hawker) (ہاک - کر) [انگ - ۱ - مذ] پھیری والا۔ خوآنچے والا۔
 گھوم پھر کر انجانہ بیچنے والا۔
 ہاکی - (Hockey) [انگ - ۱ - مرث] ایک کھیل جس میں گینداور
 خمیدہ لٹری سے کھیلنے ہیں۔
 ہال - (ہال - ۱ - مرث) (۱) حرکت۔ جنبش (۲) جھٹکا چال۔ زنتار۔ گردش
 (۳) [مذ] لوسے کا وہ چکر جو پیٹے کے گرداگرد چڑھایا جاتا ہے۔
 (۴) عربی حال کا بگڑا ہوا۔ انجمنی۔ تزلزل۔
 ہال - (ہال - ۱ - مرث) [انگ - ۱ - مذ] بڑا کمرہ۔ ہال کمرہ (۲) بڑا کمرہ
 جس میں جلے وغیرہ ہوتے ہیں۔
 ہالا - (ہال - لا) [ہال - ۱ - مرث] وہ ٹیکس جو بل پر لگایا جاتا ہے۔
 ہالا - (ہال - لا) [س - ۱ - مرث] شراب۔
 ہالڈوولا - (ہالڈو - لا) [ہالڈو - ۱ - مذ] جھونچال۔ زلزلہ۔
 ہالٹ - (Halt) [انگ - ۱ - مذ] پڑاؤ۔ منزل۔ مقام۔ ٹھہر۔
 (۲) رُکنے کا حکم۔
 ہالٹا - (ہال - نا) [ہال - ۱ - مرث] جنبش کرنا۔ حرکت کرنا۔
 ہالڈو - (ہالڈو - ف) [ہالڈو - ۱ - مذ] (۱) دائرہ۔ کنڈل (۲) چاند کا کنڈل
 جو بخارات ارضی سے چاند کے گرد چڑھتا ہے۔
 ہالنی - (ہالنی - لی) [ہالنی - ۱ - مذ] ہل چلانے والا۔ ہل چڑھانا۔
 ہالی موالی - (ہالی - لی - م - وا - لی) [ہالی - ۱ - مذ] متعلقین۔ آس پاس
 والے۔ ارد گرد کے لوگ (صحیح الہالی موالی)
 ہالٹوں - (ہالٹوں - ف) [ہالٹوں - ۱ - مذ] میدان۔ بیان۔ جنگل۔ صحرا۔
 ہالٹی - (ہالٹی - مینی) [ہالٹی - ۱ - مرث] ہال۔ اقرار۔ اثبات۔
 ہالٹی بھرتنا - (۱) محاورہ) ہال کرنا۔ اقرار کرنا۔ وعدہ کرنا۔ زبان دینا۔
 ہال - ہالی (ہال - ہالی) [ہال - ۱ - مرث] (۱) نقصان۔ ٹوٹا۔ خسارہ۔
 ضرر۔ زیان (۲) مصیبت۔ ہتانا۔ (۳) کشت و خون۔ خونریزی۔
 ہال - (۱) کلمہ ایجاب [ہال - ۱ - مرث] (۱) اچھا۔ ہوں۔ بھلا (۲) ضرور۔ ٹھیک۔ بیشک
 البتہ۔ (۳) [مرث] اقرار حکم کا اشارہ۔ تاکید۔ تمبیہ۔ (۴) [نا - باغ
 فعل] واقعی وہاں یا یہاں کا اعتقاد۔
 ہال اور - (۱) باغ فعل] ابھی زیادہ ہونا چاہیے کی جگہ۔
 ہال جی - (۱) باغ فعل] تعظیم کے موقع پر بے شک۔ بجا ہے۔
 ہال جی کا نوکر ہونا - (۱) محاورہ) ہال میں ہال بلانے سے غرض رکھنا۔
 ہال جی ہال جی کرنا۔ (۱) محاورہ) ہال میں ہال بلانا۔

ہال جی ہال جی سب کچھ کر سکتے ہیں اپنے من کی۔ (۱) مثل) ہر ایک
 سے مشورہ کرنا چاہئے منگوا دہی کرنا چاہئے سہول کو پسند آئے۔
 ہال کرنا۔ (۱) محاورہ) اقرار کرنا۔ اقبال کرنا منظور کرنا۔
 ہال میں ہال بلانا۔ (۱) محاورہ) ہال جی ہال جی کرنا۔ کورانہ تقلید کرنا۔
 بے سمجھے بوجھے مان لینا۔
 ہال نا کا جواب - (۱) مذ) صاف جواب۔ اقرار یا انکار۔
 ہال ہال - (۱) تابع فعل) (۱) وعدہ۔ اقرار (۲) منظوری۔ قبولیت۔ (۳)
 ہرگز (۴) بیشک البتہ (۵) ہرگز نہ۔ نہ نہ۔
 ہال ہوں - (۱) مرث) کلمہ ایجاب و قبول۔ اقبال۔ اقرار۔
 ہال ہوں کرنا۔ (۱) محاورہ) اقبال کرنا یا انکار کرنا۔
 ہالینا۔ (ہال - نا) [ہال - ۱ - مرث] [مض] جلد جلد سانس لینا۔ دم توڑنا۔ سانس اٹھانا۔
 ہالڈا - (ہالڈا - ڈا) [ہالڈا - ۱ - مرث] [مض] پھرنے والا۔ آوارہ گرد۔
 ہالڈنا۔ (ہالڈنا - نا) [ہالڈنا - ۱ - مرث] [مض] آوارہ پھرنا۔ بے کار پھرنا۔ آوارہ گرد ہونا۔
 ہالڈی - (ہالڈی - ڈی) [ہالڈی - ۱ - مرث] [مض] کھانا پکانے کا مٹی کا برتن (۲)
 شیشے کی ہالڈی جس میں روشنی کرتے ہیں۔ میپ کا گلوب۔ (۳)
 [صفت] پھرنے والی۔ آوارہ گرد۔
 ہالڈی اٹلنا۔ (۱) محاورہ) (۱) ہالڈی کا جوش کھاکر پانی باہر نکل پڑنا۔ (۲)
 [کنایت] بساط سے بڑھ کر کام کرنا۔
 ہالڈی پکنا۔ (۱) محاورہ) (۱) وال سالن پکنا۔ کھانا پکنا۔ (۲) [کنایت] پکچکے
 پکچکے صلاح مشورہ ہونا۔ کچھڑی پکنا۔
 ہالڈی پھوڑنا۔ (۱) محاورہ) ہالڈی پھوڑنا۔ افشائے راز کرنا۔
 ہالڈی چاٹی ہوگی۔ (۱) مثل) کسی کے شادی کے موقع پر مینہ برسے تو
 نیا قاتلے ہیں۔
 ہالڈی چڑھانا۔ (۱) محاورہ) پکانے کے لیے ہالڈی کا چھلے پر رکھنا۔
 ہالڈی کا سا بال۔ (۱) مثل) (۱) شوق جو جلدی پیدا ہوا اور جلدی ختم
 ہو جائے۔
 ہالڈی گرم کرنا۔ (۱) محاورہ) رشوت دلانا۔ فائدہ دلانا۔
 ہالڈی گرم کرنا۔ (۱) محاورہ) (۱) مفت کا مال لینا۔ بے ایمانی سے
 کوئی چیز حاصل کرنا۔ رشوت لینا۔
 ہالڈی میں جو گا سو ڈونی میں نکلے گا۔ (۱) مثل) جو دل میں ہوتا
 ہے وہی زبان پر آتا ہے۔
 ہالڈی نہ ڈونی سب پت کھوئی۔ (۱) مثل) غریبی سے عزت
 بھی جاتی رہتی ہے۔
 ہالڈی وال۔ (۱) صفت) (۱) کھانے کا ترکیب۔ سا جھی۔ حصہ دار (۲)
 رقیب۔ ایک عورت سے تعلق رکھنے والے کسی مرد۔
 ہالسی - (ہالسی - سی) [ہالسی - ۱ - مرث] (۱) سینے سے اوپر اور گردن کے نیچے کی ہڈی۔
 ہالسی۔ (۲) ایک آبی پرندہ۔ ہنس۔
 ہالسی - (ہالسی - سی) [ہالسی - ۱ - مرث] ہالسی۔ مذاق۔ دل لگی۔
 ہالسی کے گل چھانسی۔ (۱) مثل) ہالسی دل لگی کی ہالسی کرتے کرتے

فساد ہو جاتا ہے۔

ہانک - (۵-۱- مرث) [۱] آواز - پکار - (۲) جلاہٹ - غل شور۔

ہانک پکار - (۱- مرث) آدمیوں کا شور و غل - غل غبارہ۔

ہانک پکار کے کہنا - (۱- محاورہ) بہ آواز بلند کہنا۔ علی الاعلان کہنا۔

ہانک مارنا - پکارنا۔ آواز دینا۔ زور سے چیخ کر پکارنا۔

ہانکا - (ہاں - کا) [۵-۱- مذ] ہانکنے کا فعل - شکار کے لیے جھاڑیوں میں

سے جانوروں کو ہانک کر باہر نکالنے کا عمل۔

ہانکا ہانک ہانکا ہانکی - (۱- تابع فعل) متواتر ہانکنے یا بھگانے کا عمل۔

ہانکنا - (ہانک - نا) [۵- مرث] [۱] چٹانا۔ دوڑانا۔ تیز رفتار کرنا۔ (۲) بے

سوچے سمجھے کوئی بات زبان سے نکالنا۔ (۳) بڑھانا۔ ریلنا۔ پیلنا۔

ہانکے پکارے۔ (ہاں - کے - پ - کا - رے) [۱- تابع فعل] غلابیہ۔

سب کے ڈوبو۔ فٹنکے کی چوٹ۔ کھڑکھلا۔

ہانگا - (ہاں - گا) [۵-۱- مذ] زور۔ قوت۔ طاقت۔

ہانگا چھوٹنا۔ (۱- محاورہ) طاقت نہ رہنا۔ جیسا فی قوت میں فرق آتا۔

ہانگی - (ہاں - گی) [۵-۱- مرث] [۱] کپڑے کی چھینی۔ میدہ چھاننے کی

باریک چھینی۔

ہاؤن - (ہاؤن - ف) [۱- مذ] اوکھلی - کھول۔

ہاؤن دہنتہ - (ہاؤن - ف) [۱- مذ] اوکھلی اور موصل۔ دو ایسے کوٹھے کا ایک

گرف اور موصل۔

ہاؤنہو - [۵-۱- مرث] [۱] شور و غوغا (۲) آہ آہ۔ ہائے ہائے۔ درو

اور کراہنے کی آواز۔

ہاؤنیہ - (ہاؤنیہ - ی) [۱- مذ] [۱] دوزخ کا سب سے مجھے کا طبقہ۔

(۲) اندھیرا غار۔ (۳) [مرث] وہ عورت جس کے بچے مرنے لگے ہوں۔

ہاؤ - (ہاؤ - اؤ) [۱- مذ] [۱] چوکرنے والا۔ (۲) بچوں کو ڈرانے کا

گاندھی چہرہ (۳) بچوں کو ڈرانے کا ایک فرضی نام۔

ہاؤ ہاؤ - (ہاؤ - ہاؤ - ہاؤ) [۵-۱- مرث] [۱] جلدی۔ گھبراہٹ۔ ہائے۔

پکار۔ واویلا (۲) مانگ۔ طلب۔ تقاضا۔ (۳) کمی۔ ٹوڑا۔

ہاؤ ہاؤ کرنا۔ (۱- محاورہ) جلدی کرنا۔

ہاؤ ہاؤ - (۱- مرث) [۱] ہی ہی۔ ہنسی بھٹکے کی آواز (۲) افسوس جیت۔

چاپوسی۔ خوشامد در آمد (۲) عجز۔ انکار (۳) التجا۔ درخواست۔

استدعا۔

ہا ہا بھئی بھئی - (۱- مرث) ہنسی۔ ٹھٹھا۔

ہا ہا کار - (۱- مثل) ذر۔ نفوت۔ اضطراب۔ (۲) شور و غل۔ واویلا۔

ہا ہا کرنا۔ (۱- محاورہ) منت سماجت کرنا۔ خوشامد در آمد کرنا۔

ہا ہا ہو ہو۔ بیوہ ہنسی اور مذاق۔ ہنسی بھٹھا۔

ہا ہا ہی ہی۔ (۱- مثل) بیوہ ہنسی۔ تمغہ۔ بھٹھا۔

ہا ہا ہی ہی کرنا۔ (۱- محاورہ) ہنسی بھٹھا کرنا۔ تمغہ لگانا۔

ہا ہو کرنا۔ شور کرنا۔

ہائل - (ہا - ال) [ع - صفت] [۱] ہولناک۔ مہیب۔ ڈراؤنا۔

بھیانک (۲) سخت۔ شدید۔

ہائلہ - (ہا - لہ) [ع - صفت] [۱] ہائل کی تائید۔

ہاؤس - (House) [۱- اس] [انگ - ۱- مذ] گھر۔ خانہ۔

ہاؤس بوٹ (House Boat) ایک کشتی جس میں رہتے بھی ہیں۔

ہاؤس سرجن (House Surgeon) [انگ - ۱- مذ] وہ ڈاکٹر جراحی

جو شفا خانے میں سب سے طبیب مقیم شفا خانہ۔

ہائی - (ہا - ای) [۵-۱- مرث] [۱] حالت۔ طور۔ وضع۔ ڈھنگ۔ کیفیت۔

(۲) بذاتی۔ رسوائی۔

ہائی - (High) [ہا - ای] [انگ - صفت] بلند۔ اونچا۔ بالا۔ (۲) بڑا۔

اعلیٰ۔ اونچے درجے کا۔

ہائی اسکول - (High School) [انگ - ۱- مذ] مدرسہ فوقانی۔ بڑا

مدرسہ۔ وہ اسکول جس میں دسویں جماعت تک تعلیم دی جاتی ہو۔

ہائی جمپ (High Jump) [انگ - ۱- مذ] اونچی چھلانگ۔

ہائی کمان (High Command) [انگ - ۱- مرث] اعلیٰ قیادت

سالار اعلیٰ اور اس کا منصب۔

ہائی کمشنر - (انگ - ۱- مذ) سفیر۔ نمائندہ حکومت۔

ہائی کورٹ - (انگ - ۱- مذ) (High Court) عدالت عالیہ۔

ہائے - (ہائے - اے) [۱- مرث] [۱] افسوس۔ دریغ (۲) آہ۔ فریاد۔

(۳) بیماری یا کھچ کی حالت کی آواز۔ ماتم۔

ہائے اللہ - (۱- کلمہ نجابت) اے خدا۔ یا اللہ۔

ہائے رنے - (۱) کلمہ ناسف و درد۔

ہائے غضب - (۱- کلمہ نجابت) کیا ستم ہو۔ برا غضب ہو۔

ہائے وہ بھی کیا زمانہ تھا۔ (۱- مقولہ) گذشتہ زمانے کو افسوس کے

ساتھ یاد کرنے کا زمانہ۔

ہائے ہائے - (۱- تابع فعل) (کلمہ ناسف) آہ آہ۔ واویلا۔ آہ وزاری۔

(۲) پکار۔ مانگ۔ طلب۔

ہائے ہائے کرنا۔ (۱- محاورہ) (۱) کراہنا۔ آپس بھڑانا (۲) واویلا کرنا۔ نل

مجانا۔ (۳) بڑی محنت کرنا (۴) کسی کام میں جان مارنا۔ کسی چیز کے نہ

ہونے کی پکار مچانا۔

ہائے ہو - (ف - ۱- مرث) واویلا۔ غل شور۔ آہ و نالہ۔ چیخو دھاڑ۔

ہائیڈرو - (Hydro) [ہا - ڈ - رو] [انگ - سابقہ] پانی کا پانی سے

متعلق۔

ہائیڈرو الیکٹرک - (Hydro-Electric) [انگ - ۱- مذ] پانی

سے بجلی پیدا کرنے والا۔

ہائیڈروفوبیا - (Hydrophobia) [انگ - ۱- مذ] پانی کا خوف

جو کتے کے کالے کی علامت ہے۔ (۲) جنوں سگر۔ گزیدگی

کی ہیرک

ہائیڈروگرافی - (Hydrography) [انگ - ۱- مرث] علم

بحار و انہار۔

ہتیا۔ (ہتپ۔ پا) [۱-۵] مذ [۱] بچوں کا کھانا (۲) پوپلوں کے کھانے کی چیز۔ (۳) بچوں کی زبان میں کھانے پکانے والی عورت۔
 ہتپہر۔ ہتپہر۔ (۵-۵) پڑ۔ (۶-۵) پڑ۔ (۷-۵) مٹ [۱] غذا یا کسی دوسری چیز کا جلد جلد کھانا۔
 ہتپٹا۔ (Hypnotism) (ہتپ۔ ناٹ۔ ازم) [انگ۔ ۱-۱] مذ [۱] عمل تنویم۔ عمل توجہ۔ مسمریزم۔
 ہتپو۔ (ہتپ۔ پو) [۱-۱] صفت [۱] پوپلی عورت۔ (۲) ہتپ کر جانے والی عورت۔

ہائیڈرومیٹر۔ (Hydrometer) (انگ۔ ۱-۱) مذ [۱] آب پیمائی مقیاس۔
 ہائیڈرومینیا۔ (Hydromania) (انگ۔ ۱-۱) مذ [۱] ایک قسم کا جنون جس میں مر جانے کو بھی چاہتا ہے۔
 ہائیڈروجن۔ (Hydrogen) (ہا۔ ڈ۔ رو۔ جن) [انگ۔ ۱-۱] مذ [۱] ایک قسم کی گیس جو ہوا لطیف اور پانی کا جزو ہے۔ حمیضین۔
 ہائیس۔ (ہا۔ ایس) [۱] کلمہ تنبیہ و تہدید۔

ب-۵

ہتو ڈائن۔ (ہتو۔ ڈائن) [۱-۱] صفت [۱] بوڑھی پوپلی عورت۔
 ہتپو۔ (ہتپ۔ پو) [۱-۱] مٹ [۱] ایون کی گولی جو عورتیں بچوں کو دیتی ہیں۔
 ہتپو پوکیس۔ (Hippopotamus) (ہتپ۔ پو۔ پو۔ لے۔ مس) [انگ۔ ۱-۱] مذ [۱] دریائی بھینسا
 ہتپہنا۔ (ہتپ۔ ہا۔ نا) [۱-۱] مص۔ [۱] ہتپہنا۔ جسے بے سانس لینا۔
 ہتپتی۔ (Hippie) ایک ایسے گروہ کے لوگ جو برقیہ و بند سے آزاد اور نشہ استعمال کرتے ہیں۔
 ہتپتی ازم۔ (انگ۔ ۱-۱) مذ [۱] ہتپتی لوگوں کا مسلک یا طریق زندگی۔

ہتبا ڈتا۔ (ہتبا۔ ڈتا) [۱-۱] مذ [۱] بچوں کی کھانسی۔ مسان کی بیماری۔
 ہتہڑا۔ (ہتہڑا) [۱-۱] صفت [۱] بڑے بڑے دانوں والا (۲) ہنگل بد صورت۔ ہتہڑول۔ ہتہڑا۔
 ہتہڑو۔ (ہتہڑو) [۱-۱] صفت [۱] ہتہڑو فعل [۱] جلدی جلدی۔
 ہتہڑی۔ (ہتہڑی) [۱-۱] صفت [۱] ہتہڑو کی تمانیٹ۔
 ہتہڑو۔ (ہتہڑو) [۱-۱] مذ [۱] زوال۔ ہتہڑو۔ ہتہڑو۔
 ہتہڑو۔ (ہتہڑو) [۱-۱] مذ [۱] ہتہڑو۔ ہتہڑو۔ ہتہڑو۔
 ہتہڑو۔ (ہتہڑو) [۱-۱] مذ [۱] ہتہڑو۔ ہتہڑو۔ ہتہڑو۔
 ہتہڑو۔ (ہتہڑو) [۱-۱] مذ [۱] ہتہڑو۔ ہتہڑو۔ ہتہڑو۔

۵-ت

ہت۔ (ت۔ ۱) مذ [۱] ہت [۱] دوستی۔
 ہت۔ [۱] کلمہ تنفیہ چل دور ہو۔ اک ہو۔ پرے ہت۔
 ہت تیری۔ ہت تیری کی ہت تیرے کی الہی تیری۔
 (۱-۱) صفت [۱] ہت تیرا خانہ خراب کرے۔ خدا تیرا کھوج کھوئے (پیار سے بھی کہتے ہیں)۔
 ہت۔ (ت۔ ۱) مذ [۱] ہت [۱] دوستی۔ پیار۔ محبت۔ اخلاق (۲) بھلائی۔
 ہت کار۔ ہت کاری۔ (۱-۱) صفت [۱] بھلائی کرنے والا۔
 ہت۔ دوست۔ ہت۔ محبت۔
 ہت۔ ہت۔ (ت۔ ۱) مذ [۱] ہت [۱] دستہ۔ موٹھ۔ قبضہ۔
 ہت۔ ہت۔ (ت۔ ۱) مذ [۱] ہت [۱] ہت۔ ہت۔ ہت۔

ہتہڑو۔ (ہتہڑو) [۱-۱] صفت [۱] ہتہڑو۔ ہتہڑو۔ ہتہڑو۔
 ہتہڑو۔ (ہتہڑو) [۱-۱] صفت [۱] ہتہڑو۔ ہتہڑو۔ ہتہڑو۔
 ہتہڑو۔ (ہتہڑو) [۱-۱] صفت [۱] ہتہڑو۔ ہتہڑو۔ ہتہڑو۔
 ہتہڑو۔ (ہتہڑو) [۱-۱] صفت [۱] ہتہڑو۔ ہتہڑو۔ ہتہڑو۔
 ہتہڑو۔ (ہتہڑو) [۱-۱] صفت [۱] ہتہڑو۔ ہتہڑو۔ ہتہڑو۔
 ہتہڑو۔ (ہتہڑو) [۱-۱] صفت [۱] ہتہڑو۔ ہتہڑو۔ ہتہڑو۔
 ہتہڑو۔ (ہتہڑو) [۱-۱] صفت [۱] ہتہڑو۔ ہتہڑو۔ ہتہڑو۔
 ہتہڑو۔ (ہتہڑو) [۱-۱] صفت [۱] ہتہڑو۔ ہتہڑو۔ ہتہڑو۔

۵-پ

ہتیا مارنا۔ (ہتیا۔ مارنا) [۱-۱] صفت [۱] ہتیا مارنا۔ مال مارنا۔ (۲) جبراً چھین لینا۔
 ہتیا۔ (ہتیا) [۱-۱] صفت [۱] ہتیا۔ ہتیا۔ ہتیا۔
 ہتیا۔ (ہتیا) [۱-۱] صفت [۱] ہتیا۔ ہتیا۔ ہتیا۔
 ہتیا۔ (ہتیا) [۱-۱] صفت [۱] ہتیا۔ ہتیا۔ ہتیا۔
 ہتیا۔ (ہتیا) [۱-۱] صفت [۱] ہتیا۔ ہتیا۔ ہتیا۔
 ہتیا۔ (ہتیا) [۱-۱] صفت [۱] ہتیا۔ ہتیا۔ ہتیا۔
 ہتیا۔ (ہتیا) [۱-۱] صفت [۱] ہتیا۔ ہتیا۔ ہتیا۔
 ہتیا۔ (ہتیا) [۱-۱] صفت [۱] ہتیا۔ ہتیا۔ ہتیا۔

ہتپ۔ (ہتپ) [۱-۱] صفت [۱] ہتپ۔ ہتپ۔ ہتپ۔
 ہتپ۔ (ہتپ) [۱-۱] صفت [۱] ہتپ۔ ہتپ۔ ہتپ۔
 ہتپ۔ (ہتپ) [۱-۱] صفت [۱] ہتپ۔ ہتپ۔ ہتپ۔
 ہتپ۔ (ہتپ) [۱-۱] صفت [۱] ہتپ۔ ہتپ۔ ہتپ۔
 ہتپ۔ (ہتپ) [۱-۱] صفت [۱] ہتپ۔ ہتپ۔ ہتپ۔
 ہتپ۔ (ہتپ) [۱-۱] صفت [۱] ہتپ۔ ہتپ۔ ہتپ۔
 ہتپ۔ (ہتپ) [۱-۱] صفت [۱] ہتپ۔ ہتپ۔ ہتپ۔
 ہتپ۔ (ہتپ) [۱-۱] صفت [۱] ہتپ۔ ہتپ۔ ہتپ۔

ہنٹھ چھٹ - (۵ - مٹ) وہ جو ذرا سی چھید چھار پر بے دھڑک مار بیٹھے۔
وہ جس کا ہاتھ مارنے میں بہت لمبے دھڑک جیتا ہو۔
ہنٹھ کس (رسی) (۵ - مٹ) جلتی زنی۔ مٹھولے بازی۔

ہنٹھ کٹی - (۵ - ۱ - مٹ) وہ ضرب جو پھیکیت حریف کے ہاتھ پر مارتا ہے تاکہ ہاتھ بیکار ہو جائے۔

ہنٹھ کڑا رکھنا - (۱ - محاورہ) کسی سے زبردستی کام کرانا۔ بگاڑ لینا۔
ہنٹھ کڑی - وہ آہنی کڑیا یا زنجیر جو مجرم کے ہاتھ میں ڈالی جاتی ہے۔
ہنٹھ کل - (۱ - ۵ - مٹ) (۱) دستی۔ کھٹکا۔ کواڑکی دستی یا موٹھ (۲) دروازے کی بنی۔

ہنٹھ کھنڈا - (۱ - ۵ - مذ) ہاتھ کا کرنب۔ ہانڈھ کی چالاک - (۲) چال۔ فریب۔ چالاک - عیاری - (۳) ہڈی کی عادت - (۴) داؤل۔ پینچ۔ گھات۔

ہنٹھ کھنڈا بنا دینا - (۱ - محاورہ) لٹکا بنا دینا۔ طریق بنا دینا۔
ہنٹھ کھنڈے رواں ہونا - (۱ - محاورہ) کسی کام کا مشاق ہونا۔
ہنٹھ گاڑی - (۱ - ۵ - مٹ) ہاتھ سے چلانے والی گاڑی۔
ہنٹھ لیوا - (۱ - ۵ - مذ) ہندوؤں کی ایک رسم جس میں دولہا دلہن کے ہاتھ ملا دیتے ہیں۔

ہنٹھ - (۵ - ۱ - مذ) ہاتھ کی کاغخت۔
ہنٹھ نامک - (۵ - ۱ - مذ) ہاتھ کی چالاک۔ شعبہ بازی۔
ہنٹھ نال - (۵ - ۱ - مٹ) ایک قسم کی چھوٹی نوپ جسے ہاتھ کی پیٹھ پر لادتے ہیں۔

ہنٹھنی - (۵ - ۱ - مٹ) (۱) ہاتھ کی مادہ - (۲) کناٹیہ بہت فریب انداز عورت۔
ہنٹھنی - (۵ - ۱ - مٹ) (۱) دستی۔ موٹھ۔ (۲) گھوڑا صاف کرنے کا برش۔

ہنٹھنیا - (ہنٹھ - یا) [۵ - ۱ - مذ] ہاتھ (۲) دستہ (۳) برسات کے چند روز جن میں خوب بارش ہوتی ہے۔ وہ بارش جو بہ شدت ہوتی ہے۔

(۲) ماہ اسوج کے شروع کی بھڑکی۔
ہنٹھیار - (ہنٹھ - یار) [اسلمہ - سامان جنگ - (۳) اوزار - کام کرنے کا آذر۔ راجھ۔

ہنٹھیار بائدھنا - (۱ - محاورہ) - ہنٹھیار کا جسم پر آراستہ کرنا۔
ہنٹھیار بند - (۱ - ۵ - صفت) ہنٹھیار لگائے ہوئے مسلح۔

ہنٹھیار چلانا - (۱ - محاورہ) ہنٹھیار کا وار کرنا۔ ہنٹھیار کی ضرب لگانا۔ جنگ کرنا۔

ہنٹھیار ڈال دینا - ہنٹھیار رکھ دینا - (۱ - محاورہ) اپنے آپ کو دشمن کے حملے کر دینا۔ ہار ماننا۔ شکست تسلیم کرنا۔

ہنٹھیار رکھولنا - (۱ - محاورہ) کناٹیہ لڑائی سے دست بردار ہونا۔ ہار مان لینا۔

ہنٹھیار گھر - ہنٹھیار خانہ - (۱ - ۵ - مذ) ہنٹھیاروں کے رکھنے کا مکان۔

ہنٹے (ہنٹھے) پر چڑھنا - (۱ - محاورہ) (۱) ہاتھ لگنا۔ داؤں پر چڑھنا۔ کسی کے قابو میں آجانا۔ (۲) مشق کرنا۔ بہارت ہونا۔

ہنٹے (ہنٹھے) سے اکھڑنا - (۱ - محاورہ) پینک کا ہاتھ پر سے ٹوٹنا۔ (۲) جڑ سے جانا۔ (۳) بالکل الگ ہو جانا۔ ابتدا ہی سے قابو سے باہر ہو جانا۔

ہنٹے (ہنٹھے) سے بڑھنا - (۱ - محاورہ) بغیر چھڑائی لیے ہوئے پینک کا ہاتھوں سے بڑھنا۔

ہنٹک - (ع - ۱ - مٹ) پردہ دری۔ رسوائی۔ بے نرمی۔ بے عزتی۔ (اردو میں بیشتر بفتح اول و دوم متصل ہے)۔

ہنٹک آمیز - (ر - صفت) بے عزتی سے بھرا ہوا۔ گستاخانہ۔
ہنٹک عزت - (ع - ف - صفت) کسی کی عزت میں بڑھ لگانا کسی کو رسوا و بدنام کرنا۔

ہنٹو - (۵ - ۱ - مذ) محبت۔ ہوا خواہ۔ بھی خواہ۔ پیر خواہ۔
ہنٹو اس - (ہنٹ - وان - سا) [۱ - مص] (۱) ہاتھ میں لینا۔ (۲) قبضے پر ہاتھ رکھ کر تلوار ہاتھ میں لینا۔

ہنٹوٹی - ہنٹوٹی - (۵ - ۱ - تو - ٹی) - (۵ - ۱ - مٹ) دستکائی۔
چالاک - عیاری۔

ہنٹوٹا - ہنٹوٹا - (۵ - ۱ - تو - ٹا) - (۵ - ۱ - مذ) لوہاروں کا ایک اوزار۔ کومنے کا آلہ۔ مارتول۔

ہنٹوڑی - ہنٹوڑی - (۵ - ۱ - تو - ٹی) - (۵ - ۱ - مٹ) - چھوٹا ہنٹوٹا۔

ہنٹھ - (۵ - ۱ - مذ) ہاتھ کا کاغخت۔
ہنٹھ اڈھار - (۱ - مذ) وہ قرض جو گرو رکھے بغیر دیا جائے۔ دست گرداں قرض۔

ہنٹھ اڈھار دینا - (۱ - محاورہ) دست گرداں قرض دینا۔ بغیر کچھ گروی رکھے روپیہ دینا۔

ہنٹھ پھول - (۱ - مذ) ایک قسم کی آتش بازی جس سے پھول بھڑکنے میں اور جسے ہاتھ میں لے کر چھوڑتے ہیں۔

ہنٹھ پھیر - (۱ - مذ) ہاتھ کی چالاک۔
ہنٹھ پھیری - (۱ - مٹ) دست مالی۔ مساس مشتوق کے بدن پر ہاتھ پھیرنا۔ (۲) غبن۔ صفایا۔ دست برد۔ (۳) شعبہ بازی۔ ہاتھ چالاک۔

چابک دستی۔
ہنٹھ پھیری کرنا - (۱ - محاورہ) - (۱) دست مالی کرنا۔ مساس کرنا۔ ہاتھ پھیرنا۔ (۲) کمزور فریب سے کسی کا مال لے لینا۔ فریب سے کسی کو اپنے دام میں لانا۔

ہنٹھ جوڑی - (۵ - ۱ - مٹ) پہلوانوں کا نشئی کا معاہدہ کرنے کی غرض سے ہاتھ ملانا۔ (۲) ایک قسم کی گھاس جو دو داؤں میں کام آتی ہے۔

ہنٹھ چلا - (۱ - مذ) - ہاتھ کا چالاک۔ عیار۔

ط - ۵

اسلمہ خانہ

ہتھیار لگانا - (۱- محاورہ) ہتھیار باندھنا - مسلح ہونا۔
 ہتھیالینا - (ہتھ - یا - لے - نا) - [۱- مص] آقبضہ کر لینا، مار لینا، مال کو
 واپار لینا۔
 ہتھیانا - ہتھیانا - (ہتھ - یا - نا) - (ہت - یا - نا) - (۱- محاورہ) ہاتھ میں لے
 لینا، قبضہ کرنا، غصب کرنا۔
 ہتھیلی ہتھیلی - (ہ - ہتھیلی - لی) - (ہ - تے - لی) - [۱- مرث] ہاتھ کا
 اندرونی حصہ جو انگلیوں سے نیچے ہوتا ہے - کف دست۔
 ہتھیلی بجانا - (۱- محاورہ) تالی بجانا۔
 ہتھیلی پر جان لیے پھرنا - (۱- محاورہ) جان کی پرواہ نہ کرنا، نڈر ہونا۔
 ہتھیلی پر سر رکھ لینا (رکھنا) - (۱- محاورہ) مرنے کو آمادہ ہونا - سر سے
 کفن باندھ لینا، سر بچھت ہونا۔
 ہتھیلی پر سر سول جمانا - (۱- محاورہ) کوئی کام اس طرح آنا فنا کرنا
 جس سے عقل حیران رہ جائے، مشکل کام کو نہایت پھرتی سے
 کر دینا۔
 ہتھیلی پر سر لیے پھرنا - (۱- محاورہ) مرنے کو پھرنا - جان دینے کو پھرنا۔
 ہر وقت مرنے پر آمادہ ہونا۔
 ہتھیلی پر لیے پھرنا - (۱- محاورہ) عورت کا شہوت سے مغلوب ہونا۔
 ہتھیلی پر ہونا - (۱- محاورہ) ہتھیلی پر رکھ کر پیش کیا جانا۔
 ہتھیلی پٹینا - (۱- محاورہ) تالی بجانا۔
 ہتھیلی ٹیک - (۵- صفت) بولسیا - گانڈو۔
 ہتھیلی جینا - (۱- محاورہ) انتہائی غصے کا اظہار کرنا۔
 ہتھیلی دینا - (۱- محاورہ) سہانا دینا۔
 ہتھیلی سٹلانا - ہتھیلی میں ہلکی ہلکی خارش ہونا - (رو پیٹنے کا شگون)
 ہتھیلی سے ماتھا کوٹنا - (۱- محاورہ) جبریت یا حسرت ظاہر کرنا۔
 ہتھیلی کا پھپھولا (پھوٹا) - (۱- مذ) - (۱۱- ہتھیلی کا پھالا - (۲) نازک چیز
 جو ذرا سے صدمے سے ٹوٹ جائے - (۳) کوئی امر جو باعث رنج و
 تکلیف ہو۔
 ہتھیلی کھچانا - ہتھیلی کھچلانا - (۱- محاورہ) (۱) ہتھیلی میں کھلی ہونا - (۲)
 روپے ہاتھ آنے کا شگون - (۳) تھپتھپانے کو بھی چاہنا۔
 ہتھیلی کی مچھلی - (۱- مرث) انگوٹھے کے نیچے کا ابھرا ہوا گوشت۔
 ہتھیلی میں چور پٹنا - (۱- محاورہ) ہندی کے رنگ میں دھبہ رہ جانا۔
 ہتھیلی میں سفیدی رہ جانا - ہندی کیسا نہ لگنا۔
 ہتھیلیا - (ہت - یا - س) - [۱- مرث] (۱) قتل - خون - (۲) پاپ - گناہ۔
 جرم - (۳) ڈکھ - مذاب۔
 ہتھیلی باندھنا - (۱- محاورہ) عذاب نول لینا - پاپ - تکلیف وہ چیز لینا۔
 ہتھیارا - (ہت - یا - لا) - (۵- صفت) (۱) ہتھیار کرنے والا - نحوی - قاتل -
 ہتھیار جلاؤ - (۲) پاپی - سفاک ظالم۔
 ہتھیار کرنا - (۱- محاورہ) مارنا - قتل - (۲) گناہ کرنا۔

ہٹ - (۱- مرث) (۱) ہند - اصرار - اڑ - (۲) ہٹ کا محقق۔
 ہٹ اٹھانا - (۱- محاورہ) ہند پر داشت کرنا - ناز اٹھانا۔
 ہٹ پر آجانا - (۱- محاورہ) ہند پر آجانا - ناز اٹھانا۔
 ہٹ جانا - (۱- محاورہ) ہند چھوڑ دینا - (۲) الگ ہو جانا۔
 ہٹ دھرم - (۵- صفت) حق ناشناس - نامتصف - بے ایمان - بد معا
 سخن پرورد - ہندی۔
 ہٹ دھرمی - (۱- مرث) بے انصافی - بے ایمانی - بد معا ملگی۔
 ہٹ رکھنا - اپنی ہند پروری کرنا۔
 ہٹ کا پورا - (۱- مرث) ہٹ پر قائم رہنے والا - پکا ہندی۔
 ہٹ کرنا - (۱- محاورہ) ہند کرنا - اصرار کرنا - اڑنا۔
 ہٹا - (ہٹ - ٹا) - [س - ۱- مذ] جس فروخت کرنے کا بازار۔
 ہٹا کٹا - (ہٹ - ٹا) - [کٹ - ٹا] [صفت] موٹا نازہ - مشتند - جوان۔
 نندرسنت - مضبوط انسان۔
 ہٹانا - (۵- ٹا - نا) - [۱- مص] (۱) سرکانا - پر سے کرنا - کھسکانا - (۲)
 واپس کرنا - پھینا - لوٹنا - (۳) علیحدہ کرنا - الگ کرنا - (۴) پسپا
 کرنا - شکست دینا۔
 ہٹ پٹانا - (ہٹ - پ - ٹا - نا) - [۱- مص] کسی کام کے لیے مضطر
 ہونا۔
 ہٹ نال - (ہٹ - نال) - [۱- مرث] [صفت] (بازار) تالی (فعل)
 دوکان میں فعل لگانا - دوکانوں کو بند کر دینا - بازار بند کرنا۔
 ہڑتال۔
 ہڑتالی - (۱- مرث) بچوں کا کھلونا - بچے دیوالی میں پھولوں کی
 شاخوں سے مکان کی شکل بنا کر اور اس میں دیار رکھ کر کھیلتے
 ہیں۔
 ہٹکا - (۵- ٹک - نا) - [۱- مص] (۱) روکنا (۲) بھجنا - (۳) ہچکچانا۔
 ہٹنا - (ہٹ - نا) - [۱- مص] (۱) سرکانا - پر سے ہونا - کھسکانا - (۲)
 فنکست کھانا - پسپا ہونا - (۳) لوٹنا - واپس ہونا - پھینا - (۴) گانے
 بھینس کا دودھ سے رہ جانا - (۵) ہتھی ہونا - (۶) ہند کرنا۔
 ہٹوا - (ہٹ - وا) - [۱- مذ] (۱) دکاندار (۲) ہٹ بازار میں نقد
 وغیرہ تولنے والا۔
 ہٹوانا - ہٹوانیا - (ہٹ - وان - ہٹ - وا - ن - یا) - [۱- مذ]
 دکاندار۔
 ہٹی - (ہٹ - ٹی) - [۱- مرث] (۱) دکان - ہٹ - بازار - (۲)
 [صفت] ہندی - ہٹیل۔
 ہٹی کٹی (ہٹ - ٹی - کٹ - ٹی) - [۱- صفت] ہٹا کٹی تانیٹ۔
 موٹی تازی عورت۔

ہٹیللا۔ (۵-ٹی۔ لا) [۵-صفت] ضدی۔ چلا۔ اڑیل۔ بات کی پہنچ کرنے والا۔
 ٹہلانی۔ (۵-ٹی۔ بی) [۵-صفت] ہٹیللا کی تائینٹ۔ ضدی عورت۔

۵-ج

جج ججانا۔ (جج۔ جانا) [آر۔ مص] دیکھیے ججنا۔
 جچر جچر۔ (۵-چچر۔ م۔ چچر) [۵-۱-مشت] [۱] پس و پیش۔ مال منول۔
 جھکا۔ (۲) جھک۔ جھکنا۔ (۳) پکڑو و کھڑو۔ جھکڑو۔ (۴) رکاوٹ۔

۵-ج

ججا۔ (۵-جا) [ع۔ ۱- مذ] حرف کا اعراب سے ظاہر کرنا۔
 ججدہ۔ (ف۔ ۱- عدد) اٹھارہ (۱۸)۔
 ججدہم۔ (ف۔ عدد) اٹھارواں۔
 ججدہ ہزار عالم۔ (ف۔ ۱- مذ) مسلمانوں کا نینال ہے کہ انٹرنٹ ہزار عالم باجیان پیدا کیے۔
 ججر۔ (ع۔ ۱- مذ) جھڑائی۔ مفارقت۔ علیحدگی۔ (جج) بالفتح ہے اورو میں بالکسر متعل ہے۔

جچر جچر کرنا۔ (۱- مص۔ مرکب) پس و پیش کرنا۔ شش و پنج کرنا۔ تامل۔
 جچک۔ (۵-چک۔ چک) [۵-۱-مشت] [۱] دھکا۔ جھٹکا۔ (۲) تامل۔ رکاوٹ۔

ججران۔ (جج۔ ران) [ف۔ ۱- مذ] ججر۔ جھڑائی۔ مفارقت۔
 ججران نصیب۔ (ع۔ ف۔ ۱- صفت) وہ آدمی جس کی قسمت میں دولت یا عزیز سے بہدار ہونا لکھا ہو۔

جچکا۔ (۳) جھکنا۔ (۴) جھکنا۔ (۵) جھکنا۔ (۶) دھکا۔ جھکنا۔ (۷) دھکا۔ جھکنا۔ (۸) دھکا۔ جھکنا۔ (۹) دھکا۔ جھکنا۔ (۱۰) دھکا۔ جھکنا۔ (۱۱) دھکا۔ جھکنا۔ (۱۲) دھکا۔ جھکنا۔ (۱۳) دھکا۔ جھکنا۔ (۱۴) دھکا۔ جھکنا۔ (۱۵) دھکا۔ جھکنا۔ (۱۶) دھکا۔ جھکنا۔ (۱۷) دھکا۔ جھکنا۔ (۱۸) دھکا۔ جھکنا۔ (۱۹) دھکا۔ جھکنا۔ (۲۰) دھکا۔ جھکنا۔

ججرت۔ (جج۔ رت) [ع۔ ۱- مشت] [۱] وطن کو ہمیشہ کے لیے چھوڑنا۔
 (۲) پیڑ پھل وغیرہ کا کٹے سے مدینہ جانا۔

جچکا ہٹ۔ (جج۔ ہٹ) [ع۔ ۱- مشت] [۱] جچکا۔ جچکا۔ (۲) جچکا۔ جچکا۔ (۳) جچکا۔ جچکا۔ (۴) جچکا۔ جچکا۔ (۵) جچکا۔ جچکا۔ (۶) جچکا۔ جچکا۔ (۷) جچکا۔ جچکا۔ (۸) جچکا۔ جچکا۔ (۹) جچکا۔ جچکا۔ (۱۰) جچکا۔ جچکا۔ (۱۱) جچکا۔ جچکا۔ (۱۲) جچکا۔ جچکا۔ (۱۳) جچکا۔ جچکا۔ (۱۴) جچکا۔ جچکا۔ (۱۵) جچکا۔ جچکا۔ (۱۶) جچکا۔ جچکا۔ (۱۷) جچکا۔ جچکا۔ (۱۸) جچکا۔ جچکا۔ (۱۹) جچکا۔ جچکا۔ (۲۰) جچکا۔ جچکا۔

ججری۔ (جج۔ ری) [ع۔ ۱- مشت] [۱] منسوب بہ ججرت (۲) وہ سن جو حضرت پیغمبر اسلام کے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے سے شروع ہوتا ہے۔

جچکا۔ (۱) جچکا۔ (۲) جچکا۔ (۳) جچکا۔ (۴) جچکا۔ (۵) جچکا۔ (۶) جچکا۔ (۷) جچکا۔ (۸) جچکا۔ (۹) جچکا۔ (۱۰) جچکا۔ (۱۱) جچکا۔ (۱۲) جچکا۔ (۱۳) جچکا۔ (۱۴) جچکا۔ (۱۵) جچکا۔ (۱۶) جچکا۔ (۱۷) جچکا۔ (۱۸) جچکا۔ (۱۹) جچکا۔ (۲۰) جچکا۔

ججڑا۔ (جج۔ ڈا) [ع۔ ۱- مذ] دیکھیے ججڑا۔
 ججو۔ (ع۔ ۱- مشت) [۱] مذمت۔ برائی۔ بدگوئی۔ بظلم میں کسی کی برائی کرنا۔

جچکی آنا۔ (جچکیاں آنا)۔ (۱- محاورہ) [۱] آواز کے ساتھ سانس رک رک کر نکلنا۔ (۲) دم ٹوٹنا۔ جان کنی کا وقت ہونا۔

ججو کرنا۔ (۱- محاورہ) مذمت کرنا۔ بدگوئی کرنا۔
 ججو کہنا۔ (۱- محاورہ) کسی کی ججو میں شعر کہنا۔

جچکی لینا۔ (جچکیاں لینا)۔ (۱- محاورہ) رونے کی وجہ سے سانس رک رک کر نکلنا۔

ججو کو۔ (ع۔ ف۔ ۱- صفت) ججو کہنے والا۔
 ججو مچ۔ وہ ججو میں بظاہر مدح ہو لیکن اصل میں ججو نکلتے۔
 ججو مچ۔ (۵- ججو مچ) [ع۔ ۱- مذ] جھپٹ جھڑا۔ انہوہ کثیر۔ جمع۔ ازدحام۔
 ججو مچ کرنا۔ (۱- محاورہ) [۱] بھیڑ کرنا۔ ازدحام۔ (۲) ہنگامہ کرنا۔

جچکی لیتنا۔ (جچکیاں لیتنا)۔ (۱- محاورہ) رونے کی وجہ سے سانس رک رک کر نکلنا۔

ججول۔ (۵- ججول) [ع۔ ۱- صفت] اب۔ ابھی۔
 جججے جججے۔ (۵- جججے) [ع۔ ۱- صفت] جججے۔ جججے۔ [ع۔ ۱- مذ] عربی ججا کا بجا حرف کو حرف سے اعراب کے ذریعے ملا کر لفظ بنانا۔

جچکیاں لے لے کر روٹنا۔ (۱- محاورہ) نہایت شدت اور کثرت سے روٹنا۔ اس قدر روٹنا کہ سانس رک رک کر آنے لگے۔

جججے کرنا۔ (۱- محاورہ) [۱] حرفوں کو جوڑنا۔ (۲) اعراب سے لفظ اور کرنا۔ (۳) رکنا پڑنا۔ رک رک کر بولنا۔

جچکیاں لے لے کر روٹنا۔ (۱- محاورہ) نہایت شدت اور کثرت سے روٹنا۔ اس قدر روٹنا کہ سانس رک رک کر آنے لگے۔

جججے نکالنا۔ (۱- محاورہ) [۱] مین میکہ نکالنا۔ عیب نکالنا (۳) ججت کرنا۔

جچکیاں لے لے کر روٹنا۔ (۱- محاورہ) نہایت شدت اور کثرت سے روٹنا۔ اس قدر روٹنا کہ سانس رک رک کر آنے لگے۔

ججویری۔ (ف۔ ۱- مذ) افغانستان میں غزنی کے قریب ایک گاؤں۔
 ججویری۔ (ف۔ ۱- مذ) ججویری کا رہنے والا۔ داتا گنج بخش لاہوری کی نسبت۔

جچکیاں لے لے کر روٹنا۔ (۱- محاورہ) نہایت شدت اور کثرت سے روٹنا۔ اس قدر روٹنا کہ سانس رک رک کر آنے لگے۔

۵-د

دہا۔ (۵-ڈا) [ع۔ ۱- مذ] ہدایت۔ سیدھا راستہ۔
 دہا۔ (۵-ڈا) [ع۔ ۱- مذ] ہدایت۔ سیدھا راستہ۔
 دہا۔ (۵-ڈا) [ع۔ ۱- مذ] ہدایت۔ سیدھا راستہ۔
 دہا۔ (۵-ڈا) [ع۔ ۱- مذ] ہدایت۔ سیدھا راستہ۔

ہدایت کار - (ع - ف - صفت) دیکھیے ڈائریکٹر۔
 ہدایت کرنا - (۱- محاورہ) رہنمائی کرنا۔ سمجھنا۔ طریقہ بتانا۔ سکھانا۔
 ہدایت نامہ - (ع - ۱- مذ) دستور العمل۔ قانون۔ وہ رسالہ یا کتاب
 جس میں کسی امر کی بابت تمام طریقے لکھے ہوں۔
 ہڈر - (۵- ڈ) [ع - ۱- مذ] کسی کے خون کو مباح قرار دینا۔
 ہڈف - (۵- ڈف) [ع - ۱- مذ] نشانہ۔ زد۔ مار۔
 ہڈف آفت - (ع - ۱- مذ) آفت کا نشانہ۔ آفت میں مبتلا۔
 ہڈف بنانا - (۱- محاورہ) نشانہ بنانا۔
 ہڈف بننا - (۱- محاورہ) نشانہ بننا۔ زد پر آنا۔ زد پر ہونا۔
 ہڈف مارنا - (۱- محاورہ) [۱] نشانہ مارنا۔ نشانے پر تیر مارنا۔ [۲] کوئی
 بڑا کام کرنا۔
 ہڈف ملامت - (ع - صفت) وہ شخص جس پر ہر طرف سے لعنت
 ملات ہو۔
 ہڈم - (ع - صفت) تباہی۔ بربادی۔ انہدام۔
 ہڈم - (ع - صفت) برباد کرنے والا۔ تباہ کرنے والا۔
 ہڈ پلہ - (ہڈ - ہڈ) [ع - ۱- مذ] ایک مشہور خوبصورت پرند جس کے سر پر تاج
 ہوتا ہے۔ کھڑی۔
 ہڈی - (۵- ڈی) [ع - ۱- صفت] قربانی کا جانور جو حاجی مکہ معظمہ میں لے
 جاتے ہیں۔
 ہڈیہ - (۵- ڈی - پی) [ع - ۱- مذ] [۱] تحفہ۔ ہڈرانہ۔ ہڈر۔ پیش کش۔ [۲]
 کلام اللہ کی قیمت دافری اور اردو میں "و" کے سبب کے ساتھ
 اور بلا تشدید "یا" بھی متعلق ہے۔ جمع، ہدایا۔
 ہڈیہ پیش کرنا [دینا] - تحفہ یا ہڈرانہ دینا۔
 ہڈیہ کرنا - (۱- محاورہ) قرآن شریف فروخت کرنا۔ کوئی منبرک چیز بیچنا۔

اس کے تمام برے آتا۔
 ہڈی لسی ایک گروہ بنا۔ (۱- محاورہ) بڑی سختی سے بھینچنا۔ (۲) بہت
 ہڈی لسی توڑنا۔ (۱- محاورہ) خوب مارنا۔ سخت زد و کوب کرنا
 ہڈی (ہڈیاں) چھڑ کرنا۔ (۱- محاورہ) مار مار کر بھگس نکال دینا۔
 ہڈی کھلنا۔ (۱- محاورہ) تپ کہنے و امراض مہلک میں ہڈی کا کھوکھلا
 ہو جانا۔
 ہڈی میں ہڈی - پیوند میں پیوند ملنا۔ (۱- محاورہ) نسل میں نسل
 اور قوم میں قوم ملنا۔ میاں بیوی کا اچھی نسل سے ہونا۔
 ہڈی ہڈی توڑنا۔ (۱- محاورہ) خوب زد و کوب کرنا۔ بہت مارنا۔
 ہڈیاں بولنا۔ (۱- محاورہ) - بیٹھے سے ہڈیوں کا آواز دینا۔ اٹھنے بیٹھنے
 میں ہڈیوں سے آواز نکلنا۔
 ہڈیاں توڑنا۔ (۱- محاورہ) خوب پینا یا مار کر بھگس نکال دینا۔
 ہڈیاں چھوڑنا۔ (۱- محاورہ) [دکنایت] [۱] ناقص چیز کو چھوڑنا۔ ناقص چیز
 کے پیچھے پڑنا۔ [۲] ہاندھے ہوئے مضمون کو باندھنا۔
 ہڈیاں خاک میں سوہنا۔ (۱- محاورہ) نعش دفن کرنا۔
 ہڈیاں سرسبز ہو جانا۔ (۱- محاورہ) ہڈیوں کا چمڑ چمڑا ہونا۔
 ہڈیاں پچلنا۔ (۱- محاورہ) خوب مارنا۔ ضرب شدید پہنچانا۔
 ہڈیاں بکن لینا۔ (۱- محاورہ) [دکنایت] لاغری کے باعث ہڈیاں
 صاف دکھائی دینا۔
 ہڈیاں نکل آنا۔ (۱- محاورہ) کمال لاغر ہونا۔
 ہڈیاں کی مالا ہو جانا۔ (۱- محاورہ) سوکھ کر چھب نکل آنا۔ سوکھ کر کاٹا
 ہو جانا۔
 ہڈیلا۔ (۵- ڈی - لا) [ع - صفت] ہڈی دار۔

۵- ڈ

ہڈ - (Hood) [انگ - ۱- مذ] [۱] سر اور گردن کی پوشش۔ کلاہ۔
 [۲] ٹانگے وغیرہ کی کپڑے کی حیرت یا سائبان۔ [۳] بوہن پور سٹی [۴]
 وہ پٹی جو گون وغیرہ کے ساتھ پہنی جاتی ہے اور جس کے رنگ
 سے ظاہر ہوتا ہے کہ پہننے والے نے کونسی سند حاصل کی ہے۔
 ہڈا - (ہڈ - ڈا) [ع - ۱- مذ] [۱] بڑی ہڈی۔ [۲] وہ ہڈی جو گھوڑے کے
 پچھلے پاؤں کے گھٹنوں میں جوڑے کے پاس بڑھ جاتی ہے اور گھوڑا
 نکل کرنے لگتا ہے۔
 ہڈرا - (ہڈ - را) [ع - ۱- مذ] ہڈی گت۔ براؤریہ۔ برا حال
 ہڈرا کرنا۔ (۱- مص - مرکب) برا حال کرنا۔ بڑا دوجہ کرنا۔
 ہڈرمنی - (ہڈ - ڈی) [ع - ۱- صفت] [۱] امتحان۔ [۲] گاجر کے اندر کی
 سخت چیز۔ [۳] دکنایت] اصل - نسل۔
 ہڈی بٹھانا۔ (۱- محاورہ) جو ہڈی اپنی اصلی جگہ سے ہلک گئی ہو اسے

۵- ڈ

ہڈا - (ہڈ - ڈا) [ع - اسم اشارہ] یہ - ایں
 ہڈر - (ع - ۱- مذ) کبواں - بہت بولنا۔ بک بک کرنا۔ (۳) ہڈیاں
 ہڈیان - (ہڈ - یان) [ع - ۱- مذ] [۱] ہڈر۔ بیہودہ گوئی۔ [۲]
 شدت بخار کی حالت میں بے معنی گفتگو۔ [صحیح] بقیع اول و دوم ہے۔
 فارسیوں نے سکون دوم استعمال کیا ہے۔ اردو میں بیشتر بکیر
 اول متعلق ہے۔
 ہڈیان بکنا۔ (۱- محاورہ) بے ہودہ باتیں کرنا۔

۵- ل

ہڈر - [ع - ۱- ۵- مذ] [۱] دشمن۔ کرشن۔ مہاویو۔ [۲] خدا۔ پریشور۔ بھگوان۔
 [۳] ہل۔ قلبہ۔ [۴] ہڈر۔ ہڈلہ۔

ہر بھجن - (۵-۱-سٹ) دشمن کی عبادت۔ مہادیو کا بھجن۔
 ہر بھینٹا - (۱-محاورہ) خدا کا نام لینا۔ مالا بھینٹا۔
 ہر بھینکت - (۵-۱-صفت) دشمن کی عبادت کرنے والا۔
 ہر کو بھینے سو ہر کا ہونے۔ ذات پات تو پوچھے کوئے۔ (ایشل)
 جو شخص خدا کی بندگی کرتا ہے وہی اس کا پیارا ہوتا ہے۔ اللہ کے
 نزدیک ذات پات کی کوئی قدر نہیں۔
 ہر گنگا کرنا - (۱-محاورہ) نہانے وقت خدا کا نام لینا۔
 ہر - (ف) (۱) ایک۔ ایک۔ (۲) تمام۔ سب۔ یہ لفظ مجموعاً افراد
 یا اشیاء میں سے فرداً فرداً ذکر کرنے کے واسطے بولا جاتا ہے جمع
 کے ساتھ استعمال درست نہیں۔
 ہر آن - (۱-تابع فعل) (۱) ہر لمحہ۔ ہر گھڑی۔ (۲) ہر دفعہ۔
 ہر آنچہ - (ف) تابع فعل) جو بچہ۔
 ہر آنکھ - (ف) تابع فعل) جو شخص۔
 ہر آہنہ - (ف) صفت) بے شک۔ ضرور۔ البتہ۔ بہ حال۔ بہ حال میں۔
 ہر ایک - (۱-تابع فعل) ہر شخص۔ ایک ایک۔ ہر پتھر۔
 ہر بانی - (ف) صفت) دروازے پر جانے والا۔ ہر جانی۔
 ہر بار - (ف) تابع فعل) ہر دفعہ۔ ہر بار۔ گھڑی گھڑی۔
 ہر بیشہ گماں ہر کھالی سست فشا بد کہ پلنگ حقیقتہ باشد۔ (ف) (ش)
 ہر جنگل کو خالی مت سمجھو شاید اس میں چھینا سورا ہو۔ یعنی کسی
 مقام پر بھی آدمی کو اپنے دشمن سے غافل نہ رہنا چاہئے۔
 ہر ہلو سے - (۱-تابع فعل) ہر طرح سے۔ ہر بات کے متعلق۔
 ہر جانی - (ف) صفت) (۱) آوارہ گرد۔ ایک جگہ قرار نہ پکڑنے والا (۲)
 کسی ایک کا ہو کر نہ رہنے والا۔ بے مروت۔ بے وفا۔
 ہر جانی پن - ہر جانی پنا۔ (۱-مذ) بے مروتی۔ بے وفائی۔ ہر ایک
 سے تعلق رکھنا ایک کا پابند ہو کر نہ رہنا۔
 ہر جیسے تو جیسا۔ (ایشل) جیسا کوئی ہوتا ہے ویسا ہی اُسے مل جاتا ہے۔
 ہر چند - (ف) تابع فعل) کتنا ہی کیسا ہی۔ بہتیرا۔ (اس کے آگے
 کہ زیادہ بھی لگا دیتے ہیں)۔
 ہر چہ - (ف) تابع فعل)۔ ہر چیز جو بچہ۔
 ہر چہ از (دوست) عجیب می رسد نیکو سست - (ف) مقولہ) عالم
 غیب (دوست) سے اچھا برا جو کچھ بھی ملے وہ اچھا ہے۔
 ہر چہ با دا باد - (ف) مقولہ) کچھ ہی کیوں نہ ہو جو ہو سو ہو۔ کچھ ہی ہو۔
 ہر چہ با دا باد ماکشتی در آب (اندلسیتیم) آگندہ ایم۔ (ف) (ش)
 جو کچھ بھی جو ہونے کو کشتی پانی میں ڈال دی اس وقت بولنے
 ہیں جب کوئی شخص انجام کی پرواہ کیے بغیر کوئی اہم کام شروع
 کرتے۔
 ہر چہ باشد - (ف) مقولہ) کوئی چیز کیوں نہ ہو۔
 ہر چہ بخود نہ پسندیں ہر دیگر ان پسند - (ف) (ش) جو تو اپنے
 لیے پسند نہیں کرتا وہ دوسروں کے لیے بھی پسند نہ کر۔

ہر چہ وانا کند، کندنا وال - ایک بعد از خرابی بسیار - (ف)۔
 (ش)۔ نادان آخر وہی کرتا ہے جو عقائد کرتا ہے لیکن بڑی ذلت
 اور تکلیف اٹھانے کے بعد۔
 ہر چہ درد یک است بچہ سے آید - (ف) (ش) جو دیک میں
 ہے وہی بچہ میں آتا ہے جو دل میں ہے وہی زبان پر آتا
 ہے۔
 ہر چہ در کان نمک رفت نمک شد - (ف) (ش) جو چیز نمک
 کی کان میں پڑی نمک ہوگئی۔ یہ مثل تاثر صحبت کے اظہار
 میں بولی جاتی ہے۔
 ہر چہ گیرید مختصر گیرید - (ف) (ش) جو کچھ لوٹھو ڈالو۔ ٹھوڑی چیز پر
 قناعت کرو۔ زیادہ کی ہوس نہ کرو۔
 ہر حال میں - (۱) متعلق فعل) ہر حالت میں۔ ہر طرح۔ بہ حال۔ بہر
 حیث۔
 ہر دفعہ - (ف) متعلق فعل) ہر بار ہر موقع پر۔ ہمیشہ۔
 ہر دفعہ کھڑے بیٹھا ہی بیٹھا۔ (۱) (ش) گڑھ کو جب دیکھو بیٹھا ہی ہو
 گا۔ اچھے کی ہمیشہ اچھی نکلتی ہے۔
 ہر دل عوز - (ف) تابع فعل) سب کا پیارا۔ عام پسند مقبول عام۔
 ہر دم - (متعلق فعل) ہر وقت۔ ہر گھڑی۔ ہر لمحہ۔
 ہر دو - (ف) تابع فعل)۔ دونوں۔ دونوں کے دونوں۔
 ہر دو بچی بچہ - (۱) صفت) (۱) ہر جانی۔ ہر شخص کے پاس آنے جانے
 والا۔ (۲) طفیل۔ مفت عورا۔ رکابی مذہب۔
 ہر روز - (ف) تابع فعل) روزمرہ۔ بلاناغہ۔ ہمیشہ۔ سارا۔
 ہر روز عید میست کہ حلو انجور دکھے۔ (۱) (ش) ہمیشہ زمانہ نیکان نہیں
 رہتا۔ روز روز اچھا موقع نہیں ملتا۔
 ہر روز نیا کھواں کھو دیا نیا پانی پینا۔ (ایشل) (کنا پتہ) روزگنا۔ روز
 کھانا۔
 ہر زماں - (ف) تابع فعل) ہر وقت۔ ہر گھڑی۔
 ہر کن موقع (ف) متعلق فعل) ہر ممکنہ موقع (مکان) دارو۔ (ف)۔
 (ش)۔ ہر بات کا کوئی موقع مل ہوا کرتا ہے۔
 ہر سو - ہر طرف - (۱) تابع فعل) ہر جانب۔ ہر سمت۔ ہر طرف۔
 ہر شب شب برات ہے ہر روز روز عید - (ف) (ش) زندگی
 منرت کے گزر رہی ہے۔
 ہر صورت - (۱) تابع فعل)۔ ہر طرح۔ ہر حالت میں۔
 ہر عیب کہ سلطان بہ پسند ہمز است - (ف) (ش) حاکم بری
 بات بھی پسند کرے تو لوگ اس کی تنقید کرتے ہیں۔
 ہر فرعونے راموسی - (ف) (ش) ایک پر ایک غالب ہے۔ ہر ظالم
 کی سرکوبی کے لئے کوئی نیک بندہ پیدا ہوتا ہے۔
 ہر فن مولا - (۱) مذ) ہر فن جاننے والا۔ ہر کام میں طاق۔
 ہر کارہ - (ف) صفت) (۱) ہر کام کرنے والا کوئی (۲) چھٹی رسال۔ قاسد۔

ہرانا۔ (۵۔ را۔ نا) [۱۔ ہ۔ م۔ ص] [۱۔ بازی دینا۔ مات کرنا۔ (۲) شکست دینا۔ مغلوب کرنا۔ (۳) نفلکانا۔ مضمحل کرنا۔

ہراند۔ (۶۔ راند) [۵۔ ہ۔ م۔ ص] [۱۔ مٹا۔ دیکھنے۔ ہراہند۔

ہرانی جتانی۔ (۵۔ را۔ نی۔ ج۔ تا۔ نی) [۵۔ صفت] [حیران کرنے والی یا عاجز کرنے والی۔ (بات)۔

ہراول۔ (۶۔ را۔ ول) [۱۔ ت۔ ا۔ مذ] [۱۔ وہ تھوڑی فوج جو لشکر کے آگے آگے جیسے لشکر کا پیش خیمہ (۲) آگے کی فوج کا سردار۔

ہرہرنہ جانا۔ [۱۔ م۔ ص] [دو چیزوں میں فرق نہ کرنا۔ قوت نیز سے بے بہرہ ہونا۔

ہرہونگ۔ [ہر۔ ہونگ] [۵۔ ہ۔ ا۔ مذ۔ م۔ ص] [اندھیر۔ بظنی۔ ہنگامہ۔

ہرہونگ پھیل۔ [افرا۔ نری۔

ہرہونگ مچانا۔ (۱۔ محاورہ) [شور و غل کرنا۔ اُدھم مچانا۔ ہنگامہ کرنا۔

ہرہونگ ہونا۔ (۱۔ محاورہ) [کثرت سے بھیڑ بھاڑ ہونا۔ (۲) شور و غل ہونا۔ بظنی ہونا۔

ہرہواریوڑی۔ [ہر۔ فار۔ یوڑی] [ہر۔ پھا۔ ریو۔ لڑی۔ ہر۔ نا۔ ریو۔ لڑی] [۵۔ ہ۔ م۔ ص] [ایک قسم کا چھوٹا ٹھکانا پھیل۔

ہرہوچھکر۔ [ہر۔ پھکر۔ (۱۔ تابع فعل] [۱۱] پھر پھراکے۔ مجبور ہو کر۔

اخرکار۔ (۲) بار بار۔ ہر دفعہ۔

ہرہتال۔ (۱۔ م۔ ص] [ایک قسم کی دھات جو زرد رنگ کی ہوتی ہے۔

ہرہتی پھرتی چھاؤں۔ [۵۔ ہ۔ م۔ ص] [آتی جاتی چھاؤں۔ ایک جگہ ایک کے پاس نہ رہنے والی چیز۔

ہرہتے پھرتے۔ [۵۔ ہ۔ م۔ ص] [تابع فعل] [۱۱] آتے جاتے۔ چلتے پھرتے (۲) کبھی کبھی۔

ہرہرج۔ (۱۔ ہ۔ م۔ ص] [شورش۔ ہنگامہ۔ دنگا۔ گڑبڑی۔ فتنہ۔ (۲) نقصان۔ خسارہ۔ نخل۔ وقفہ۔ ڈھیل۔ دیر (۳) اُردو میں لفتح ر مستعمل ہے۔

ہرہرج کرنا۔ (۱۔ محاورہ) [۱۱] نقصان کرنا۔ (۲) دیر کرنا۔

ہرہرج مہرج۔ (۱) شورش۔ بلوہ۔ (۲) نقصان۔ نخل۔

ہرہرج کیا ہے۔ (۱۔ بول چال) [کیا مضا نقتہ ہے۔ کیا برائی ہے کیا نقصان ہے۔؟

ہرہرجانا۔ [۱۔ ہ۔ م۔ ص] [۱۱] بازی ہار جانا (۲) ٹھک جانا۔

ہرہرجانہ۔ (ہر۔ جانا۔ ن) [۱۔ ا۔ ر۔ مذ] [ہرج کرنے کا معاوضہ۔ نہ نقصان۔ تاوان۔

ہرہرجہ۔ (ہر۔ جہ) [۱۔ ا۔ ر۔ مذ] [۱۱] نقصان۔ خسارہ۔ (۲) ہرجانہ۔ تالان۔

ہرہروا۔ [۱۔ ہ۔ م۔ ص] [۱۔ م۔ ن۔ قلب۔ ضمیر۔

ہرہروا کھل جانا۔ (کھلنا)۔ (۱۔ محاورہ) [روشن ضمیر ہونا۔ باطن کی کھ کھل جانا۔ ہمت بٹھ جانا۔ ذہن روشن ہونا۔

ہرہروے کرنا۔ (۱۔ محاورہ) [حفظ کرنا۔ اڑ کرنا۔ یاد کرنا۔ دل میں جانا۔

ہرہروا دل۔ (ہر۔ وا۔ دل) [۵۔ ہ۔ م۔ ص] [گھوڑے کے سینے کی بھونری

جو مٹھی سمجھی جاتی ہے۔

ہرہرہ۔ (ہر۔ رہ) [۱۔ م۔ ص] [صفت] [بیہودہ۔ لغو۔ نامعقول۔

ہرہرہ سہرا۔ (ہر۔ م۔ ص] [صفت] [بیہودہ گو۔ یادہ گو۔

ہرہرہ سہرائی۔ (ہر۔ م۔ ص] [۱۔ م۔ ص] [بیہودہ گوئی۔ یادہ گوئی۔

ہرہرہ کار۔ وہ جو بیہودہ باتوں کا خوگر ہو۔

ہرہرہ گردو۔ (ہر۔ م۔ ص] [صفت] [بے مقصد ہار ہار پھرنے والا۔ آوارہ گرد۔

ہرہرہ گردی۔ (ہر۔ م۔ ص] [۱۔ م۔ ص] [آوارہ گردی۔

ہرہرہ گو۔ یادہ گو۔ بیہودہ گو۔ بکواس کرنے والا۔

ہرہرس۔ (ہر۔ رس) [۵۔ ہ۔ م۔ ص] [۱۔ م۔ ص] [ہل کی پھالی۔

ہرہرسا۔ (ہر۔ رسا) [۵۔ ہ۔ م۔ ص] [۱۔ مذ] [صندل گھسنے کا پتھر۔

ہرہرکھ۔ (ہر۔ رکھ) [۵۔ ہ۔ م۔ ص] [۱۔ مذ] [سکھ۔ خوشی۔ خوشی۔ خوشی۔

ہرہرگنہ۔ (ہر۔ گنہ) [۱۔ م۔ ص] [۱۔ م۔ ص] [کبھی نہیں۔

ہرہرگنہ ہرگنہ۔ کبھی نہیں۔ بالکل نہیں کسی طرح نہیں۔

ہرہرمجسٹی۔ (Her Majesty) (ہر۔ م۔ جین۔ بی) [انگ] [۔

ملکہ معظمہ۔ بادشاہ کی خطاب۔

ہرہرمز۔ (ہر۔ مز) [۱۔ م۔ ص] [۱۔ مذ] [ہرہرشی سینے کا پہلا دن جس میں سفر کرنا، نیا کپڑا پہننا اور قرض دینا بٹا خیال کیا جاتا ہے (۲) ایلان کے ایک بادشاہ کا نام۔

ہرہرمزی۔ (ہر۔ م۔ زمی) [۱۔ م۔ ص] [۱۔ م۔ ص] [ایک قسم کی سرخ مٹی۔

ہرہرمی۔ (ہر۔ می) [۱۔ م۔ ص] [ایک قسم کا رنگ۔

ہرہرمسائے پھیلاں مٹول۔ (ہر۔ م۔ ص] [۱۔ م۔ ص] [ہر کام میں شامل ہو جانے والا۔

ہرہرمشائے۔ (ہر۔ مشائے) [۱۔ م۔ ص] [۱۔ م۔ ص] [ہر فن مولانا۔

ہرہرمشائے۔ (ہر۔ مشائے) [۱۔ م۔ ص] [۱۔ م۔ ص] [ہر فن مولانا۔

ہرہرن۔ (ہر۔ رن) [۵۔ ہ۔ م۔ ص] [۱۔ مذ] [مرگ۔ آہو۔

ہرہرن کاچوگرڈی بھرننا۔ (۱۔ محاورہ) [ہرن کا چاروں ٹانگیں اٹھا کر قلائیں مارنا ہرن کا لہند لگانا۔

ہرہرن کاچوگرڈی بھول جانا۔ (۱۔ محاورہ) [گھبرانے یا خوف کے سبب ہرن کا پھرتی کو بھول جانا۔ حواس باختہ ہو جانا۔

ہرہرن کا کالا ہونا۔ (۱۔ محاورہ) [نہایت شدت کا دھوپ پڑنا مشہور سے کہ دھوپ کی شدت سے ہرن کا رنگ کالا پڑ جاتا ہے۔

ہرہرن کھرنی۔ (ہر۔ م۔ ص] [۱۔ م۔ ص] [ایک قسم کی بیل جو برسات میں پیدا ہوتی ہے اس کے پتے ہرن کے کھڑے سے مشابہ ہوتے ہیں۔ (۲) عمدہ قسم کا لالنگ۔

ہرہرن کی شناخ۔ (۱۔ م۔ ص] [ہرن کا سینگ۔

ہرہرن ہو جانا۔ (۱۔ محاورہ) [ہرن کی طرح بھاگ جانا۔ فرار ہو جانا۔ رفو چکر ہو جانا۔ کافر ہو جانا۔

ہرہرنہ۔ (ہر۔ نا) [۵۔ ہ۔ م۔ ص] [۱۔ مذ] [کھٹی کا اگلا اُبھرا ہوا حصہ (۲) جسے میں کسی چیز کا ہارنا۔ (۳) ہازی ہار جانا۔

ہرہرنا۔ ہرہرنا۔ (ہر۔ نا) [۵۔ ہ۔ م۔ ص] [۱۔ مذ] [ہرن۔ آہوئے نہ]

ہریانا۔ (ہریا۔ نا) [۵-مص] (۱) سرسبز ہونا، ہرا ہرا ہونا (۲) [۱-مذ] اپنی زمین۔
 ہریاؤں۔ (ہریا۔ فون) [۵-۱-مذ] (۱) ہریالی۔ سبزی۔ سبزہ۔
 طراوت۔ تازگی۔ (۲) سبزہ ناز۔ چراگاہ۔ مرغزار۔
 ہریالی۔ (ہریا۔ رائی) [۵-۱-مذ] ہریاؤں۔
 ہرے پھرے۔ (ہریا۔ رے) [۵-۱-مذ] (۱) ہریاؤں۔ (۲) ہرے پھرے۔
 ہریاؤں۔ (ہریا۔ یں) [۵-۱-مذ] ایک قسم کا سبز رنگ کا پرند جو جنگلی
 آٹے، گوشت کی یعنی اور دو دھ سے پکاتے ہیں۔ (۲) [صفت]
 نہایت گلا ہوا۔ گلا ہوا۔
 ہریاؤں۔ (ہریا۔ یں) [۵-۱-مذ] ایک قسم کا سبز رنگ کا پرند جو جنگلی
 ہریاؤں۔ (ہریا۔ رے) [۵-۱-مذ] ایک قسم کا خوش آواز پرند۔

۵- ط

ہڑ۔ (ہڑ۔ مٹ) [۵-۱-مذ] ہلیلہ۔ ایک قسم کا کیلا پھل۔ (۲) ایک قسم کی لمبی
 گھنٹی جو ہڑ سے مشابہ ہوتی ہے اور گولے کے ہاروں یا ازار بند
 پر لگائی جاتی ہے۔ (۳) ہڑ کا معنی۔ ہڈی۔ استخوان۔
 ہڑ بھر۔ (ہڑ۔ مٹ) قدیم دشمنی۔ پرانا نینر۔
 ہڑ بھونکن۔ (ہڑ۔ مٹ) ہڈیوں کا درد۔
 ہڑ بھونکا۔ (ہڑ۔ مٹ) ایک بوڑھے کا نام جس سے ہڈی جوڑی جاتی ہے۔
 ہڑ بھونکا۔ (ہڑ۔ مٹ) خاندانی قبرستان۔ وہ جگہ جہاں اپنے کنبہ کے
 لوگ دفن ہوں۔
 ہڑ۔ (ہڑ۔ صفت) [۱] بے وقوف۔ نادان۔ سادہ لوح۔ چڑیلوں کو بھگانے
 کی آواز۔
 ہڑ بھانا۔ (ہڑ۔ ب۔ ڈانا) [۱-مص] بھوکھانا۔ بے قرار ہونا مضطرب
 ہونا۔
 ہڑ بھری۔ (ہڑ۔ ب۔ ٹھی) [۵-۱-مذ] (۱) گھبراہٹ۔ بھیراری۔
 اضطراب۔ (۲) بھاگڑ۔ بل چل۔ افراتفری۔
 ہڑ بھریا۔ (ہڑ۔ بھریا) [۵-۱-مذ] (۱) بے چین۔ گھرایا ہوا۔ (۲) جلد باز
 ہڑ بھونکن۔ (ہڑ۔ بھونکن) [۵-۱-مذ] (۱) دیکھنے پر ہونگ۔
 ہڑ بھونپ۔ (ہڑ۔ بھونپ) [۵-۱-مذ]۔ بغیر چیلنے نکل جانا۔ ایک ہی
 دفعہ نوالہ انا روینا۔
 ہڑ بھونپ کر جانا۔ (ہڑ۔ بھونپ) [۱-محاورہ] (۱) نکل جانا۔ کھا جانا۔ (۲) نہیں کر لینا۔
 ہڑ بھونپ۔ (ہڑ۔ بھونپ) [۱-۵-مذ] کسی چیز کا ایک ہی دفعہ منہ میں ڈال
 کر حلق سے اتار جانا۔
 ہڑ بھونپ۔ (ہڑ۔ بھونپ) [۵-۱-مذ] (۱) نکلنا۔ نہیں کرنا۔
 ہڑ بھونپ۔ (ہڑ۔ بھونپ) [۵-۱-مذ] (۱) ہتھال۔ کسی ماتم یا حاکم کے

ہرنوٹہ۔ (ہرنوٹہ۔ نا) [۵-۱-مذ] ہرن کا بچہ۔
 ہرنج۔ (ہرنج۔ ہرنج) [۵-۱-مذ] ایک قسم کا باریک چاول۔
 ہرنجی۔ (ہرنجی۔ ہرنج) [۵-۱-مذ] ہرن کی مادہ۔
 ہرنوٹا۔ (ہرنوٹا۔ نا) [۵-۱-مذ] (۱) ہرن والا۔ وہ شخص جو زمین کو زراعت
 کے لیے تیار کرے۔
 ہرنوٹی۔ (ہرنوٹی۔ ہرنوٹی) [۵-۱-مذ] ایک قسم کے بانس کی لکڑی جو نہایت
 عمدہ اور ٹھوس ہوتی ہے۔
 ہرنوٹی۔ (ہرنوٹی۔ ہرنوٹی) [۵-۱-مذ] (۱) ہرنوٹی اور تقویٰ جو مل جوتنے والوں کو ہلا
 سوتا دیا جاتے۔
 ہرنوٹا۔ (ہرنوٹا۔ نا) [۱-مص] (۱) ڈرنا۔ کانپنا۔ (۲) غرانا (۳) دریا
 کا شور کرنا۔
 ہرنوٹے۔ (ہرنوٹے۔ ہرنوٹے) [۵-۱-مذ] (۱) ہل چلانے والا بیل (۲) شترالی بیل۔
 (۳) آوارہ بیل۔ (۴) بکری۔ گائے۔ بھینس۔
 ہرنوٹی۔ (ہرنوٹی۔ ہرنوٹی) [۵-۱-مذ] (۱) ہرن کا بگاڑ۔ خدا۔ پریشور۔ بھگوان۔ سرسبز۔
 ہرنوٹی۔ (۲) خدا کا نام بلوانا (۳) لبروستی مار ڈالنا (۴) زندہ درگور کرنا۔
 ہرنوٹی۔ (۵) محاورہ (۶) مرتے وقت خدا کا نام لینا۔ (۷) چیس بولنا۔
 ہار جانا۔
 ہرنوٹی۔ (ہرنوٹی۔ ہرنوٹی) [۵-۱-مذ] (۱) ہرن کی نائیٹ۔ سبز۔ کاہی رنگ کی۔
 (۲) سرسبز۔ ترقی تازہ۔ شاداب۔
 ہری پھری۔ (ہری۔ صفت) [۵-۱-مذ] سرسبز و شاداب۔ ترقی تازہ۔
 ہری چمک۔ ہری گھاس کھانے والا۔ دولت کا سمیٹھی۔ بے وفا۔
 ہری چمکی۔
 ہری چھیننی پکنا چھین گائے، منہ بڑے سے جو بھائی جائے
 (۱-مذ) [۵-۱-مذ] جب تک ہری پک نہ جائے کیا چھین گائے بچہ نہ ملے
 تب تک ان کا بھروسہ نہیں۔ جب کوئی کام انجام کو پہنچ جائے
 تب ہی اطمینان ہوتا ہے۔
 ہری کین (Hurricane Lantern) (انگ۔ ۱-مذ)
 لالیٹین۔ ہوا میں نہ بھیننے والا چراغ۔
 ہریا۔ (ہریا۔ ہریا) [۵-۱-مذ] (۱) سرسبز شاداب۔ (۲) سبز۔ ہرا ہرا۔
 (۳) شاہی جنگل کا نگبان۔ (۴) جنگلی۔ وحشی۔
 ہریا باہمتی حاکم چور۔ دونوں کے بگڑے اور نہ مٹھور۔ (۱) [مذ]
 جنگلی باہمتی اور نہ ہریت حاکم کے بگڑ جانے سے کہیں ٹھکانا نہیں ملتا۔
 ہریا لا۔ (ہریا۔ لا) [۵-۱-مذ] (۱) سرسبز و شاداب۔ (۲) فوجان۔
 خوبصورت۔
 ہریا لا بننا۔ فوجان اور خوبصورت ڈولہا۔
 ہریالی۔ (ہریالی۔ ہریالی) [۵-۱-مذ] (۱) سبزی۔ تازگی۔ (۲) سبز و ترو
 تازہ گھاس۔ دوب۔ سبزہ ناز۔
 ہریالے۔ (ہریالے۔ ہریالے) [۵-۱-مذ] ایک قسم کے گیت جو شادی
 میں گائے جاتے ہیں۔

ظلم سے تنگ آ کر تمام بازار بند کر دینا یا کام چھوڑ دینا۔ ایک قسم کی ہربلی
 دھات۔ ہڑنال
 ہڑنال کرنا۔ (۱- محاورہ) (۱) دکابیں بند کرنا۔ (۲) حاکم کے ظلم یا کسی نام کی
 وجہ سے دکانوں کو قفل لگا دینا یا کارخانوں وغیرہ میں کام چھوڑ دینا۔
 ہڑونگ۔ (ہڑونگ) [۵-۱- مذ] شور و غل۔ دنکا۔ فساد۔ جھگڑا۔
 ہڑونگا۔ ہڑون۔ (۱-۵) [۵-۱- مذ] شور و غل۔ جھگڑا۔ فساد۔ لڑکوں
 کا پھیل کود۔ (۲) [صفت] شور و غل کرنے والا۔ جھگڑالو۔ فسادی (۳)
 آوارہ۔ چھوہڑ۔ بدسلطنت۔
 ہڑونگ کرنا۔ (۱- محاورہ) ثمرات کرنا۔ کھینا۔ کودتے پھرنا۔
 ہڑونگی۔ (ہڑون۔ گی) [۵- صفت] (۱) جھگڑالو۔ فسادی۔ شور مچانے
 والی عورت (۲) آوارہ۔ بیپودہ (عورت) (۳) چھوہڑ۔ بدسلطنت۔ عورت
 ہڑوک۔ (ہڑوک) [۵-۱- مذ] ایک قسم کا باجا۔
 ہڑوک۔ (ہڑوک) [۵-۱- مذ] جنون سگ گردیگی۔ وہ بیماری
 جو باولے کتے کے کاٹنے سے ہو جاتی ہے۔ (۲) انگ۔ (۳) دلولہ (۳)
 نبت۔ عادت۔ دھت۔
 ہڑوک اٹھنا۔ ہڑوک لگنا۔ (۱- محاورہ) (۱) باولے کتے کی طرح بولنا اور
 کاٹنے کو ڈوڑنا۔ (۲) دلولہ اٹھنا۔ شوقی چرانا۔
 ہڑوک چڑھنا۔ (۱- محاورہ) (۱) باولے کتے کے کاٹے کا زہر چڑھنا۔
 باولے کتے کے کاٹے کے اثر سے دیوانہ ہو جانا۔
 ہڑوکا۔ (ہڑوکا) [۵-۱- مذ] کسی کی جدائی کا غم جس سے بچے بیمار پڑ
 جاتے ہیں۔
 ہڑوکانا۔ (ہڑوکانا) [۱- مص] [ترسانا۔ بھڑکانا۔ کسی کی جدائی سے
 رنج دینا۔
 ہڑوکائی۔ (ہڑوکائی) (ہڑوکائی) [۵- صفت] لگی۔ دیوانی۔ باؤلی۔
 ہڑوکائی کتیا۔ (۵-۱- مذ) وہ کتیا جو ہر ایک کو کاتتی پھرے۔ (۲)
 دکابینہ (۱) لڑاکا۔ جھگڑالو۔ ہر ایک کے سر ہونے والی۔ (عورت)
 ہڑوکنا۔ (ہڑوکنا) [۵-۱- مذ] (۱) بچوں کا کسی کو یاد کرنا۔
 (۲) ترسانا۔ پھڑکانا۔ خواہش مند ہونا۔
 ہڑونا۔ (ہڑونا) [۵- مص] [ترسانا۔ ودن چاہنا۔

ز ۵

ہزار۔ (۵- ناز) [صفت] (۱) دس سو [۱- تابع فعل] [چند۔ بہتیرا۔
 کتنا ہی] (۲) [۱- مذ] [صفت] [۱- مذ] ہزار داستان۔ جمع۔ ہزاراں۔ ہزاراں۔
 ہزار آفتیں ہیں ایک دل لگاتے ہیں۔ (۱- مثل) ایک عشق کے
 ساتھ ہزاروں کیفیتیں ہوتی ہیں۔
 ہزار باتوں کی ایک بات۔ (۱- مثل) مختصر اور عمدہ بات۔
 ہزار بار۔ (۱- تابع فعل) اکثر۔ بار بار۔ ہزار دفعہ۔
 ہزار بار (پا پیہ)۔ (۱- مذ) ہزار پیروں والا۔ کھجور۔

۵-۰

ہزارو۵۔ (ہزار ۵) [فت۔ صفت] اٹھارہ ہزاروہ ہزار عالم۔ تمام مخلوق جو اٹھارہ ہزار طرح کی ہے۔

علائیہ (۳) ضرور بالضرور۔
ہزار۱- (۵-۰ نا- نا- ۵-۰ نا- ۵-۰ نا- ۵) [۱-۱۔ ۱- مذ] کل صدبرگ۔۔۔
ایک قسم کا گیندا۔ (۲) ایک قسم کا فوارہ۔
ہزاراں- (۵-۰ نا- ناں) [فت۔ صفت] ہزار کی جمع۔
ہزاراں ہزار- ہزاروں۔ بڑی تعداد میں۔

۵-س

ہسبا- (ق- ۱- مذ) [فت۔ صفت] ہنسنا۔ ہنسی۔
ہسپتال- (ہس۔ پ- ہمال- ۱- انگ۔ ہاسپٹل (Hospita)) کامونڈ۔
۱- مذ [اسپتال۔ شفاخانہ۔ دارالشفا۔ بیمارستان۔
ہسٹری- (س- ۱- مذ) [۱- ہمت۔ دست- (۲) ہمتی کی سوز۔ (۳) تیرہواں ستارہ- (۴) ہمتی۔ نیل۔
ہسٹری- (فت- ۱- مرث) [۱- ہستی۔ زندگی۔ زلیبت۔ حیات۔ وجود۔ (۲) کائنات۔

ہزار ہا- (۵-۰ نا- ہا) [فت۔ صفت] ہزاری جمع۔ ہزاروں۔
ہزارہی- (۵-۰ نا- رہی) [فت۔ صفت] ہزار سے نسبت رکھنے والا۔ (۲) [مذ] ہزار آدمیوں کا افسر۔ منیلہ عمدہ حکومت کا ایک عمدہ۔ [مرث] ہزار آدمیوں کی پلیٹن۔

ہزادی ہزارہی- (۱- مذ) [۱- سپاہی اوزناہر۔ فوجی اور شہری لوگ۔ ادنیٰ اور اعلیٰ خاص و عام۔ (۲) ہزاروں قسم کے آدمیوں سے ملنے والا۔ بازار میں بیٹھنے والا۔ (۳) کسانیت اسلمد۔ کیندہ۔ ناقابل اعتبار۔ ہزاری روزہ- (فت- ۱- مذ) ماہ رجب کی شائیسویں تاریخ کا نفعی روزہ۔

ہزاری عمر- (فت- ۱- مرث) ہزار سال کی عمر۔ لمبی عمر۔
ہزادی منصف- (فت- ۱- مذ) زمانہ شاہی کے مطابق فوج کا ایک عمدہ کیفیت تعداد اس عمدے کا نام اور درجہ ہوتا تھا۔ جیسے
سہ ہزادی۔ بیچ ہزادی وغیرہ۔
ہزال- (ہز- ۱- زال) [رت۔ صفت] پرلے درجے کا ہزل گو۔ بہت بڑا پھلکا۔

ہزارنہ- (His Honour) [انگ۔ ۱- مذ] گورنر کا تعظیمی خطاب۔
ہزا ایشیلیسی (His Excellency) [ہز۔ ایک۔ سی۔ لین۔ سی] [انگ۔ ۱- مذ] گورنر اور سفیر کے لیے تعظیمی خطاب۔
ہزہیز- (۵-۰ زہ۔ ہز۔ ۵-۰ زہ۔ ہز) [رت۔ ۱- مذ] شیر بزرگ پھاڑ ڈالنے والا شیر۔ (۲) کسانیت بڑا بہادر۔

ہزج- (۵-۰ زہج) [رت۔ ۱- مرث] [۱] عروض کی ایک بحر کا نام (۲) وہ آواز جو تال ٹرکے ساتھ ہو۔

ہستی- (ہس۔ ہی۔ ۱- فت) [۱- مرث] [۱] وجود۔ قیام۔ موجودگی۔ (۲) موجودات۔ مخلوقات و کائنات (۳) حیات۔ زندگی۔ زلیبت۔ (۴) [۱] حقیقت۔ اصل۔ بساط۔ (۵) مجال۔ طاقت۔ تاب (۶) دولت۔ ثروت۔ (۷) دنیا۔ (۸) نمود پسندی۔ نمود بینی۔

ہز ل- (رت۔ ۱- مرث) [۱] بیوہ بائیں مذاق۔ تمسخر۔ (۲) وہ نظم جس میں مصرعے بن کے مضامین ہوں۔ جمع ہزلیات۔
ہز ل گو- بیوہ گو۔ مذاقہ نظم کہنے والا۔

ہستی بجا و داں- (فت- ۱- مرث) حیات ابدی۔ ہمیشگی زندگی۔
ہستی فانی- ہستی۔ مہوہوم۔ ہستی۔ تاپا پندار۔ ہستی۔ دور روزہ۔ (فت- ۱- مرث) فنا ہو جانے والی زندگی۔ وہی اور خیالی زندگی۔ قائم نہ رہنے والی زندگی۔ چند روزہ زندگی۔

ہزل کوئی۔ ہزل کتنا۔
ہز مجیستی- (His Majesty) [ہز۔ نے۔ جس۔ نی] [انگ۔ ۱- ہز۔ ہا و شاہوں کا خطاب اعلیٰ حضرت۔
ہز مائی تیس- (His Highness) [انگ۔ ۱- مذ] والیہاں کیا سبت کا لقب۔ حضور۔ اعلیٰ حضرت۔

ہستری- (History) [ہس۔ ہٹ۔ ہی] [انگ۔ ۱- مرث]۔
حالات۔ تاریخ۔ سیرت۔ تذکرہ۔
ہستری شیٹ- (History Sheet) [انگ۔ ۱- مذ] وہ کاغذ جس میں کسی مزمعہ کے مفصل حالات اور اس کے پچھلے جرائم درج ہوتے ہیں۔ اعمال نامہ۔

ہز لہزیت- (۵-۰ زہی۔ ہز۔ ۱- مرث) [رت۔ ۱- مرث] [انگ۔ ۱- مذ] شکست۔ بھاگڑ۔ بار۔
ہز لہزیت اٹھانا۔ (۱- محاورہ) شکست کھانا۔ بھاگنا۔ پسپا ہونا۔

ہسٹیریا- (Hysteria) [ہس۔ ٹے۔ ر۔ ہا] [انگ۔ ۱- مذ] احتناق الرحم۔
ہسٹکا- (ہس۔ کا) [۱- مذ] [۱] کسی کی نقل کرنا۔ ریس (۲) کسی کا مقابلہ یا برا بھلا کرنا۔

ہنسی - (ہنس - لی) [۵-۱- مرث] دیکھیے ہنسی۔
ہنسیا - (ہنس - یا) [۵-۱- مذ] دیکھیے ہنسیا۔

۵- ہنس

ہنرش - [اُر - ۱- مرث] [۱۱] گنتے کو دھنکارنے کی آواز - (۲) اُونٹ کو بٹھانے
ہنرش کی آواز - (۳) پرندوں کے اُڑانے کی آواز۔
ہنشاش - (ہنرش - شاش) [ع - صفت] شاداں - فرجاں - خوشش۔

ہنشاش ہنس ہنکھ - (ع - صفت) بہت خوش - خوش و خرم - باغ باغ۔
ہنشت - (ف - صفت) آٹھ۔

ہمشنت ہمشنت - (ع - ۱- مذ) آٹھ ہشتیوں - (۱۱) خلد (۲) دارالسلام (۳)
دارالفرار (۴) جنت عدن - (۵) جنت المادوی (۶) جنت النعیم۔
(۷) عقیقین - (۸) فردوس۔

ہمشنت پہلو - (ف - صفت) آٹھ پہلو کا - آٹھ کونیا۔
ہمشنت وہ - (ف - ۱- عدد) آٹھارہ - ۱۸۔

ہمشنت صفات - (ف - ع - ۱- مرث) آٹھ خوبیاں - اشکر نعمت -
علم - خدا کی معرفت - راہنی برضار ہوتا - (۵) مصیبت میں صبر
(۶) اخلق اللہ سے محبت (۷) تعظیم حکم خدا - (۸) عفت۔

ہمشنت گنج - (ف - ۱- مذ) خمر و پر ویز باؤ شاہ ایران کے آٹھ خزانے۔
ہمشنت منظر - (ف - ۱- مذ) [۱۱] آٹھ آسمان (۲) منطقہ البروج اور آٹھ
ستاروں کے گردش کے راستے۔

ہمشنت - [اُر] یہ لفظ اکثر لغت ظاہر کرتے کسی امر سے روکنے یا بھڑکنے
کے واسطے بولا جاتا ہے۔

ہمشنت - (ف - گنتے لئی کو دھنکارنے کی آواز۔
ہمشنت مرثنت - لات گھرنے کی لڑائی - مار کٹائی - دھینکا ہشتی۔
ہمشنت مرثنت ہونا - مار کٹائی ہونا - دھینکا ہشتی ہونا

ہمشتاو - (ہنرش - ہتاؤ) [ف - صفت] آبسی - (۸۰)
ہمشتم - (ہنرش - تم) [ف - صفت] آٹھواں - آٹھویں۔
ہمشکا کرنا - (ہنرش - کار - نا) [اُر - مص] [۱۱] کہنے کو کسی طرف بھرنے کی
قریب دینا - (۲) کسی کو اشتعال دے کر کسی بات پر راجب کرنا۔

ہمشکانا - (ہنرش - کانا) [اُر - مص] اشتعال دینا۔
ہمشیار - (ہنرش - یار) [ف - صفت] ہوشیار کا مخف۔
ہمشیار کرنا - (۱- محاورہ) خبردار کرنا - غافل نہ رہنے دینا۔
ہمشیاری - (ہنرش - یا - ری) [ف - ۱- مرث] ہوشیاری کا مخف۔

۵- ہضم

ہضم - (ع - ۱- مذ) [۱۱] پچاؤ - تحلیل - معدے میں کھانا پچنا - (۲) غبن۔

چوری - تغلب۔
ہضم کرنا - (۱- محاورہ) [۱۱] پچانا - تحلیل کرنا - (۲) مال مارنا - داب بٹھنا
اڈکار مار جانا۔
ہضم ہونا - (۱- محاورہ) [۱۱] غذا کا تحلیل ہونا - (۲) مال کا مارا جانا - غبن کا کھانا
کرنا۔

۵- ہفت

ہفت - (ف - صفت) سات [۷]
ہفت آسیا - (ف - ۱- مذ) سات ستاروں کی گردش کے دائرے۔
ہفت اقلیم - (ف - ۱- مذ) سات علاقوں کی کل دنیا۔

ہفت آوازیں - (ف - ۱- مذ) مختلف قسم کے لذیذ کھانے۔
ہفت امام - (ف - ۱- مذ) سات امام - (۱) امام اعظم ابوحنیفہ (۲) امام
شافعی (۳) امام مالک (۴) امام احمد بن حنبل - (۵) امام ابو یوسف (۶) امام محمد
امام زفر۔

ہفت اہرام - (ف - ۱- مذ) ایک رگ کا نام جس کے فصد سے سر
سینہ - پشت اور ہاتھ پاؤں کا خون نکلتا ہے۔
ہفت پر وہ چشم - (ف - ۱- مذ) آنکھ کے سات پردے۔
ہفت پشت - سات پیرھی - سات نسلیں۔

ہفت سکر - (ف - ۱- مذ) سات ستارے - سات آسمان۔
ہفت جوتش - (ف - ۱- مذ) وہ چیز جو سات دھائیں ملا کر
بنائی جاتے - وہ دھائیں یہ ہیں - سونا - چاندی - تانبا - جست۔
لوا - سیسہ - رانگا۔

ہفت چشمہ بہشت - (ف - ۱- مذ) بہشت کے سات چشمے - (۱)
کوثر (۲) کافر (۳) سلیل (۴) تسنیم (۵) معین (۶) زنجیل (۷) مہیم۔
ہفت حرف آبی - (ف - مذ - مرث) ح - ذ - س - ظ - ق۔

ہفت حرف آتش - (ف - ۱- مرث) ا - ذ - ش - ط - ف۔
ہفت حرف استدلال - (ف - ۱- مذ) ح - ص - ض - ط - ظ - ع۔

ہفت حرف خاکی - (ف - ۱- مذ) ح - خ - و - ر - ع - خ - ل۔
ہفت حرف ہوائی - (ف - ۱- مذ) ب - ت - م - ص - ن۔
ہفت حکایات - (ف - ۱- مرث) سات کمائیاں جو بہرام گور کو
سات لڑکیوں نے سنائی تھیں۔

ہفت حواس - (ف - ۱- مذ) سات آسمان۔
ہفت خطوط - (ف - ۱- مذ) سات کیرلی جو حشید کے پیلے میں
تھیں۔

ہل مل کر رہنا۔ (۱- محاورہ) میل جول کے ساتھ رہنا۔

ہل من مہنارز۔ (ع- بول چال) میدان جنگ میں حریت کو لانے کے لیے بناو میدان میں پکارتے ہیں کون سے لڑنے والا۔

ہل من مہنارز۔ (دہل- بم- م- زم- زم) [ع- بول چال] قرآن شریف کا ایک جملہ۔ جب سب دوزخی دوزخ میں جاچکیں گے تو دوزخ پکار پکار کر کہے گا۔ کچھ اور بھی ہوتو لاؤ۔

ہلنا۔ (ہل- نا) [۱- مص] (۱) متحرک ہونا۔ لڑنا۔ کانپنا۔ تھرتھانا۔ جنبش کرنا۔ (۲) مانوس ہو جانا۔ پرچنا۔

ہلنے کو جی نہ چاہنا۔ (۱- محاورہ) بہت زیادہ سخت ہونا۔

ہلو۔ (Hallo) (انگ- ۱- مڑا) دیکھیے ہیلو۔

ہلورا۔ (ہ- لو- را) (۱- ۵- مڑا) موج۔ لہر۔

ہلورے لینا۔ ہلوریں لینا۔ (۱- محاورہ) موقعیں ماننا۔ لہرس لینا۔

ہلہل۔ (ہل- ہل) [۱- ۵- مڑا] ایک پودا جو لوہا پیر کے لیے مفید ہے۔

ہلہلا۔ (ہل- ہلا) [۱- ۵- مڑا] (۱) شکوفہ۔ کوئی عجیب یا توکھی بات۔

(۲) شوق۔ اُتک۔ (۳) ہتھان۔ جھوٹی بات۔ بے سرو پا بات۔

ہلہلا اٹھنا۔ (۱- محاورہ) (۱) جھکتا کھڑا کرنا۔ شکوفہ چھوٹنا۔ کسی کام کے لئے وقت و دل چاہنا۔ شوق چرانا۔

ہلہلا کر بخار چھوٹنا۔ (۱- محاورہ) ایسا بخار چھوٹنا کہ بیمار کانپنے لگے۔

ہلہلانا۔ (ہل- ہلا- نا) [۱- ۵- مڑا] (۱) کانپنا۔ تھرتھانا۔ بخار کی شدت سے تھرتھانا۔

ہلبیلہ۔ (ہ- لے- لے) [۱- ۵- مڑا] ایک دوکان نام۔

۵- م

ہم۔ [۵- ہ] (۱) (غیر جمع منکلم) میں اور میرے ساتھی۔ (۲) کلمہ تعظیم جو اپنی ذات کے لیے استعمال ہوتا ہے۔

ہم بھی کوئی ہیں۔ (۱- محاورہ) (۱) ہم سے بھی کوئی رشتہ اور خصوصیت ہے۔

ہم بھی بڑا بھی بڑا متنبہ ہے۔ (۲) ہمارا بھی بڑا متنبہ ہے۔

ہم بھی کیا یاد کریں گے۔ (۱- مثل) کسی کی بے توجہی اور بے پروائی کے شکوہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔

ہم بھی ہیں پانچوں سواروں میں۔ (۱- مثل) چھوٹا ہو کر اپنے آپ کو بڑوں میں شمار کرنا۔

ہم بھی ہیں وہ بھی ہیں۔ (۱- مثل) ہمارا اور ان کا مقابلہ ہے۔ دیکھیں کون بڑھتا ہے۔

ہم پھپھل پڑے۔ (۱- مثل) ہمیں پر غصہ اتارا۔ زبردست کچھ نہ کہا۔ ہم نہ تاحق خفا ہو گئے۔

ہم جا میں یا تم جاؤ۔ (۱- مثل) ہمارے تمہارے سوا کوئی دوسرا

ہم خوش ہمارا خدا خوش۔ (۱- مثل) کمال رضامندی ظاہر کرنے کے

لیے متعل ہے۔

ہم سے اڑتے ہو۔ (۱- مثل) ہم سے چالیں چلتے ہو۔ ہمیں فریب دیتے

ہم سے کب چل سکتے ہو۔ (۱- مثل) ہم تمہارے فریب میں نہیں

آسکتے۔

ہم کس باغ کی مولیٰ ہیں۔ (۱- مثل) ہمارا کیا زور ہے۔ ہماری کون

گنتا ہے۔

ہم کو اپنی ذات کو۔

ہم کو پیٹے۔ ہم کو گاڑے۔ ہماری بھتی کھائے۔ ہم کو ہے ہے کرے۔

(۱- کلمہ رقم) عورتوں کی سخت تمیزیں۔ ہمارا ماتم کرے۔ ہمیں روئے۔

ہم کون ہیں۔ (۱- مقولہ) ہم اس لائق نہیں۔ ہمیں اس میں کچھ بھی

داخل نہیں۔

ہم کہاں۔ (۱- مقولہ) ہم نہ ہوں گے۔

ہم نہ کہتے تھے۔ (۱- مقولہ) دیکھا جو کچھ ہم نے کہا وہی ہونا۔ ہم نے

نہ کہا تھا۔

ہم۔ (ع- ۱- مڑا) (۱) اندیشہ۔ فکر۔ طلال۔ غم۔ (۲) قصد۔ ارادہ۔

ہم۔ (ف- حرف عطف) (۱) نیز بھی۔ بلکہ۔ اس کے علاوہ۔ (۲) کسی

کام میں شرکت ظاہر کرنے کے لیے۔ آپس میں۔ باہم دگر۔

ہم آغوش۔ (ف- صفت) بغل گیر۔ ہم کنار۔ باہم گلے ملنے والا۔

ہم آغوش ہونا۔ (۱- محاورہ) بغل گیر ہونا۔ ہم کنار ہونا۔ گلے لگنا۔

ہم آغوشی۔ (ف- صفت) بغل گیری۔ ہم کناری۔

ہم آواز۔ ہم آہنگ۔ (ف- صفت) شریک یا لگ میں شریک (۲) ساتھی۔

دوست۔ منفق المائے۔

ہم بزم۔ (ف- صفت) محفل میں شریک۔ ہم مجلس۔

ہم بستہ۔ ایک ہی بستہ پر سونے والا۔ ساتھ سونے والا۔

ہم بستہ ہونا۔ (۱- محاورہ) (۱) ساتھ سونا۔ ایک ہی بستہ پر سونا۔ (۲) صحبت کرنا۔ مجامعت کرنا۔

ہم بستری۔ (ف- صفت) جماع۔ مجامعت۔

ہم بغل۔ (ف- صفت) ہم آغوش۔ ہم کنار۔

ہم پایہ۔ (ف- صفت) ہم مرتبہ۔ ہم مرتبہ۔ ہم سر۔

ہم پلہ۔ (ف- صفت) برابر کی لکڑی کا۔ برابر کی جوڑا کا۔ ہم زنبہ۔ برابر کی مار کا۔ برابر فاصلے کا۔

ہم پہلو۔ (ف- صفت) (۱) پہلو کے برابر۔ پہلو پہلو۔ برابر۔ (۲) ساتھی۔

رشتہ۔

ہم پیالہ۔ (ف- صفت) (۱) ایک پیالے میں کھانے والا۔ ہم کاسہ۔

ہم طعام۔ گرا دوست۔

ہم پیشہ۔ (ف- صفت) ایک ہی پیشہ اور ایک ہی کام کرنے والا۔

ہم ترازو۔ (ف- صفت) ہم پلہ۔ ہم وزن۔ ہم مرتبہ۔

ہم جلیس۔ (ف- ع- صفت) ہم نشین۔ پاس بیٹھنے اُٹھنے والا۔

ہم جماعت۔ (ف۔ صفت) ہم سبق جماعت کا یا ہر ہم مکتب کلاس فیلو۔
ہم جنس۔ (ف۔ صفت) ایک جنس کا۔ ہم ذات۔ ایک نمونے کا۔ ہم مرتبہ۔
ہم پیشہ۔

ہم رنگ۔ (ف۔ صفت) ایک رنگ کا۔ ایک طرح کا۔ یکساں۔
ہم رنگ۔
ہم رنگی۔ (ف۔ ۱۔ مثن) ایک رنگ یا وضع کا ہونا۔

ہم رو۔ (ف۔ صفت) (۱) ہم راہ۔ ہم سفر۔ (۲) وہ گھوٹا جو پانچ سال
کا ہو گیا ہو اور اس کے سب مانت لنگل آئے ہوں۔

ہم زاد۔ (ف۔ صفت) (۱) جو ساتھ پیدا ہوا ہو (۲) وہ روایتی شیطان
یا جن جو ہر انسان کے ساتھ پیدا ہوتا اور ہمیشہ ساتھ رہتا ہے۔ (۳)
سایہ۔

ہم زانو۔ (ف۔ صفت) پاس بیٹھے والا۔ پیلوشین۔ (۲) برابر کا۔

ہم زبانی۔ (ف۔ صفت) (۱) ہم قول۔ متفق۔ (۲) ہم کلام۔
ہم زلف۔ (ف۔ صفت) ساڑھو۔ سالی کا خاندنہ۔
ہم زمان۔ (ف۔ صفت) ہم عصر۔ ایک زمانے کے لوگ۔
ہم ساز۔ (ف۔ صفت) (۱) ہم دم۔ (۲) سازگار۔ موافق۔
ہم کمال۔ (ف۔ صفت) ہم عمر۔ عمر میں برابر۔

ہم سالی۔ (۱۔ مثن) پڑوس۔

ہم سائیگی۔ (ف۔ ۱۔ مثن) پڑوس۔ مکان کا قرب۔ (۲) پاس کا
مکان۔

ہم سایہ۔ (ف۔ صفت) پڑوسی۔

ہم دست۔ (ف۔ صفت) (۱) ہمراہ۔ ساتھ۔ (۲) شریک۔ متفق۔

ہم سبقت۔ (ف۔ صفت) ساتھ سبق پڑھنے والا۔ ہم درس۔ ہم جماعت۔
ہم سخن۔ (ف۔ صفت) ہم زبان۔ ہم کلام۔ ساتھی۔
ہم سخن کرنا۔ (۱۔ محاورہ) مقابل ہو کر بولنا۔ مقابلہ کرنا۔

ہم دست ہونا۔ (۱۔ محاورہ) ملنا۔ حاصل ہونا۔
ہم دگر۔ (ف۔ صفت) باہم۔ آپس میں۔ دونوں ایک دوسرے میں۔
ہم دم۔ (ف۔ صفت) رفیق۔ یار۔ دوست۔

ہم نمر۔ (ف۔ صفت) برابر کا۔ ہم مرتبہ۔ ہم چشم۔

ہم دیوار۔ (ف۔ صفت) پڑوسی۔ ہمسایہ۔

ہم سہمی۔ (ف۔ ۱۔ مثن) برابر۔ ہم چشمی۔ مساوات کرنا۔

ہم ذات۔ (ف۔ صفت) ایک ذات کا۔ ہم قوم۔
ہم لاز۔ (ف۔ صفت) لازدان۔ بھیدی۔ محرم لاز۔

ہم سفر۔ (ف۔ صفت) ساتھ سفر کرنے والا۔ سفر کا ساتھی۔ رفیق راہ۔
ہم ہلک۔ (ف۔ صفت) (۱) سمجھی جن کے لڑکی لڑکے ساتھ بیٹھے
ہوں۔ (۲) ساتھ تھنی کیا ہوا۔

ہم سہمی۔ (ف۔ صفت) برابر۔ برابر کا۔ ہمسرہ۔ برابر
کی فکر کا۔

ہم سہمی۔ (ف۔ ۱۔ مثن) برابر۔ ہم چشمی۔ مساوات کرنا۔

ہم راہ۔ (ف۔ صفت) (۱) ساتھ چلنے والا۔ رفیق راہ۔ ساتھی۔ ہمرنگ۔
(۲) ساتھ سنگ۔

ہم سہمی۔ (ف۔ صفت) (۱) ہم عمر۔ ہم جولی۔

ہم راہ گزشتاب کند ہمراہ تو نیست۔ (ف۔ مثن) ساتھی اگر جلدی
کرے تو وہ تیرا سپار رفیق نہیں ہے۔
ہم راہ ہولینا۔ (۱۔ محاورہ) ساتھ ہولینا۔
ہم راہی۔ (ف۔ صفت) ساتھی۔ ساتھ چلنے والا۔ (۲) یار۔ رفیق۔ (۳) ساتھ۔
معیشت۔

ہم سہمی۔ (ف۔ صفت) ہم وزن۔ رتے میں برابر۔

ہم شان۔ (ف۔ صفت) برابر کی شان کا۔ ہم زنبہ۔
ہم شکل۔ (ف۔ صفت) ایک شکل کا۔ ہم صورت۔
ہم ریشہ۔ (ف۔ ۱۔ مذ) دودھ شریک بھائی یا بہن۔ (۲) حقیقی بھائی
یا بہن۔ لیکن ریفظ عموماً بہن کے لیے مستعمل ہے۔ (۱۔)
ہم شیر زاد۔ ہم شیر زاد۔ (ف۔ ۱۔ مذ) بھانجا۔ خواہر زادہ۔

ہم سہمی۔ (ف۔ صفت) ہم سن۔ (۱) ہم عمر۔ ہم جولی۔
ہم سنگ۔ (ف۔ صفت) ہم وزن۔ رتے میں برابر۔
ہم سوانا۔ (۱۔ صفت) وہ مقامات جن کی سرحدیں ایک دوسرے سے
ملتی جوتی ہوں۔

ہم شہرہ - (۱) دودھ شریک بن - (۲) خواہر بگی بن -
 ہم شہرہ اخیانی - (۱) صفت) مال کی طرف سے بن -
 ہم شہرہ رضاعی - (۱) صفت) دودھ شریک بن - بچہ کی بن نہ ہو -
 بلکہ ایک ہی عورت کا دودھ پینے میں شریک رہی ہو -
 ہم شہرہ غلامی - (۱) صفت) باپ کی طرف سے بن -
 ہم صحبت - (۱) صفت) ساتھی ہم نشین - پاس اٹھنے بیٹھنے والے -
 ہم صیغہ - (۱) صفت) ہم آواز - وہ پرنندے جو ایک قسم کی بولی بولتے
 ہیں - (۲) ہم دم - ساتھی - دوست -
 ہم طالع - (۱) صفت) یکساں منصب والا -
 ہم طرح - (۱) صفت) وہ غزل یا قصیدہ جو ایک ہی طرح یا ایک ہی
 زمین میں لکھے جائیں - (۲) مقابل - ہم نگر -
 ہم عصر - (۱) صفت) ہم عہد - ہم زمانہ - ایک وقت کا -
 ہم عمر - (۱) صفت) ہم سن - برابر کی عمر کا - ہم سال -
 ہم عمال - (۱) صفت) ہم کاب - ہمراہ - (۲) ساتھی - رفیق -
 ہم عہد - (۱) صفت) ہم عصر - ہم زمانہ -
 ہم آقد - (۱) صفت) برابر قدم کا -
 ہم قدم - (۱) صفت) ساتھی - رفیق - ہمراہی - ہم سفر -
 ہم قرآن - (۱) صفت) ہم قرین - بار - مصاحب -
 ہم کلم - (۱) صفت) ہم نگر - وہ لوگ جو ایک ہی خدمت پر مامور
 ہوں -
 ہم قوم - (۱) صفت) ایک قوم کا - ایک ذات کا -
 ہم لغو - (۱) صفت) ایک ہی نازان کا - ایک ہی کہنے کا -
 ہم کلام - (۱) صفت) ہم سن - بل کر بات کرنے والا -
 ہم کلام ہونا - (۱) محاورہ) ہم سن ہونا کسی سے بات کرنا -
 ہم کلامی - (۱) صفت) باہم بات چیت -
 ہم کفار - (۱) صفت) ہم آغوش - بغل گیر -
 ہم کرد - (۱) صفت) ساتھ پھرنے والا -
 ہم مہربان - (۱) صفت) ایک ہی مہربان کا - ایک ہی ملت کا -
 ہم مرکز - (۱) صفت) وہ دائرے جن کا ایک مرکز ہو -
 ہم مشرب - (۱) صفت) ایک ہی طریقے کا - ایک ہی مسلک کا -
 ہم معنی - (۱) صفت) وہ الفاظ جن کے معنی ایک ہی ہوں - ایک
 دوسرے کے مرادف الفاظ -
 ہم مکتب - (۱) صفت) ہم مدرسہ - ایک ہی مکتب کے پڑھے ہوئے
 ایک ہی مکتب کے پڑھنے والے
 ہم نام - (۱) صفت) ایک ہی نام کا - ہم اسم -
 ہم نگر - (۱) صفت) مقابل - حریف -
 ہم نشین - (۱) صفت) ہم صحبت - مصاحب -
 ہم نظر - (۱) صفت) مقابل - ہم پایہ -
 ہم نفس - (۱) صفت) دوست - آشنا - رفیق -

ہم نوا - (۱) صفت) ہم آہنگ - ہم آواز - ہم صیغہ -
 ہم نوالہ - (۱) صفت) ساتھ کھانے پینے والا -
 ہم وطن - (۱) صفت) ایک دیں کا - ایک ملک کا - ایک شہر کا -
 ہم وقت - (۱) صفت) ہم عصر - ہم زمانہ - ہم عہد -
 ہما - (۱) صفت) ا - مذکر) ایک شہر یا جگہ کی نسبت کہا جاتا
 ہے کہ جس کے سر پر سے گزر جائے وہ بادشاہ ہو جاتا ہے -
 ہما بازی شامازی پیروں سے دغا بازی - (۱) مثل) استاد کے
 آگے شکر دیکھ کر نہیں چلتی
 ہمام - ہمامی - (۱) صفت) مثل) مقابلہ - بلبری - (۲) رقابت -
 ہمارا - (۱) صفت) ہمارا - (۱) صفت) ہمارا سب کا - تمام کا - (۲) میرا - میری ذات کا -
 ہمارا بھی خدا ہے - (۱) مثل) کسی سے مایوس ہو جانے کے وقت بولنے
 ہیں -
 ہمارا تمہارا خدا بادشاہ - (۱) مثل) فقہہ کو کسی بادشاہ کا فقہہ شروع کرنے
 وقت یہ فقہہ کہتے ہیں -
 ہمارا جنازہ دیکھو (دیکھو) - (۱) محاورہ) تمہیں جو اکثر عورتیں کی زبان
 پر آتی ہیں -
 ہمارا ذمہ - (۱) صفت) ہم اس بات کے ذمہ دار ہیں -
 ہمارا سلام ہے - (۱) محاورہ) بیزاری ظاہر کرنے کے لینے کہتے ہیں
 ہمارا کیا ہے - (۱) محاورہ) ہمارا کیا بگڑتا ہے - ہمارا کیا نقصان ہے -
 ہمارا لہو پیٹے - ہمارا اعلوہ کھائے - (۱) محاورہ) عورتوں کی تسیں - ہم
 کو کھائے ہم کو پیٹے - ہمارا مردہ دیکھو - ہماری بھتی کھائے -
 ہمارے بڑے بڑے آزاد کرتے تھے - (۱) مثل) بزرگوں
 نے کام کیا - ہم نام جانتے ہیں - جو شخص خود کو نہ ہو مگر باپ دادا کے نام
 پر اترائے اس کی نسبت بولتے ہیں پر دم سلطان بود -
 ہمارے فرشتوں کو بھی خبر نہیں - (۱) مثل) ہم مطلق بے خبر ہیں ہیں
 ذرا بھی اطلاع نہیں -
 ہمارے گھر آگے کیا لاؤ گے - تمہارے گھر آئیں تو کیا کھلاؤ گے
 - (۱) مثل) نہایت خود غرضی کے موقع پر کہتے ہیں -
 ہمارے منہ میں بھی زبان ہے - (۱) محاورہ) ہم بھی اس سوال کو جواب
 دے سکتے ہیں - ہم بھی بات کرنے کی قدرت رکھتے ہیں -
 ہمارے ہال سے آگ لانی نام رکھا بسیندر - (۱) مثل) پرانی چیز
 پر اترنے والے کی نسبت بولتے ہیں - ہماری چیز اور ہیں سے دریغ -
 ہماری - (۱) صفت) ہا - ری) - (۲) ض) اپنی - ذاتی - نجی -
 ہماری بی بی مہی سے میاؤں - (۱) مثل) ہمارا ہی کھائے اور ہمیں پرغزائے
 ہماری بندگی سمجھو - (۱) مثل) ہمارا سلام پہنچے - ہم سلام کرتے ہیں -
 (۲) ہم باز آئے نہیں معاف رکھیں -
 ہماری دادی نے گھی کھایا ہمارا ہاتھ سو گھو - (۱) مثل) کام کوئی گے
 داد کوئی مانگے -
 ہما سنا - (۱) صفت) ہا - ماس) - (۲) ماس) کسی وزنی چیز کو اس کے نیچے کوئی چیز

ہمکنہ (۵- فعل) ہمکنہ مصدر سے مینہ امر۔
ہمکنہ ہمکنہ کر چلنا۔ (۱- محاورہ) منگ منگ کر چلنا۔ اچک اچک کر چلنا۔

ہمکنارا۔ (۲- ہم۔ کا۔ را) [۵- ۱- مذ] ہوں۔ ہاں کسی بات کے اقرار و اقبال کی آواز۔ ہنکارا۔

ہمکنارا بھرننا۔ (۱- محاورہ) اقرار کرنا۔ اقبال کرنا۔

ہمکناری۔ (۲- ہم۔ کا۔ ری) [۵- ۱- مثن] دیکھیے ہمکارا۔

ہمکننا۔ (۵- تک۔ نا) [۵- ۱- مثن] بچے کا ہاتھ پاؤں مار کر ایک کی گود سے دوسرے کی گود میں جانے کا ارادہ ظاہر کرنا۔

ہمکنگی۔ ہمکنگیں۔ (۵- م۔ گی۔ ۵- م۔ گین) [۵- ۱- مثن] گل۔ تمام۔ سب کے سب۔

ہمکنہ۔ (۵- م۔ گین) [۵- ۱- مثن] جمع ہمتیں۔ حوصلے۔

ہمکنہ۔ (۵- م۔ گین) [۵- ۱- مثن] جمع ہمتیں۔ حوصلے۔

ہمکنہ۔ (۵- م۔ گین) [۵- ۱- مثن] جمع ہمتیں۔ حوصلے۔

ہمکنہ۔ (۵- م۔ گین) [۵- ۱- مثن] جمع ہمتیں۔ حوصلے۔

ہمکنہ۔ (۵- م۔ گین) [۵- ۱- مثن] جمع ہمتیں۔ حوصلے۔

ہمکنہ۔ (۵- م۔ گین) [۵- ۱- مثن] جمع ہمتیں۔ حوصلے۔

ہمکنہ۔ (۵- م۔ گین) [۵- ۱- مثن] جمع ہمتیں۔ حوصلے۔

ہمکنہ۔ (۵- م۔ گین) [۵- ۱- مثن] جمع ہمتیں۔ حوصلے۔

ہمکنہ۔ (۵- م۔ گین) [۵- ۱- مثن] جمع ہمتیں۔ حوصلے۔

ہمکنہ۔ (۵- م۔ گین) [۵- ۱- مثن] جمع ہمتیں۔ حوصلے۔

ہمکنہ۔ (۵- م۔ گین) [۵- ۱- مثن] جمع ہمتیں۔ حوصلے۔

ہمکنہ۔ (۵- م۔ گین) [۵- ۱- مثن] جمع ہمتیں۔ حوصلے۔

ہمکنہ۔ (۵- م۔ گین) [۵- ۱- مثن] جمع ہمتیں۔ حوصلے۔

ہمکنہ۔ (۵- م۔ گین) [۵- ۱- مثن] جمع ہمتیں۔ حوصلے۔

ہمکنہ۔ (۵- م۔ گین) [۵- ۱- مثن] جمع ہمتیں۔ حوصلے۔

ہمکنہ۔ (۵- م۔ گین) [۵- ۱- مثن] جمع ہمتیں۔ حوصلے۔

ہمکنہ۔ (۵- م۔ گین) [۵- ۱- مثن] جمع ہمتیں۔ حوصلے۔

ہمکنہ۔ (۵- م۔ گین) [۵- ۱- مثن] جمع ہمتیں۔ حوصلے۔

ہمکنہ۔ (۵- م۔ گین) [۵- ۱- مثن] جمع ہمتیں۔ حوصلے۔

ہمکنہ۔ (۵- م۔ گین) [۵- ۱- مثن] جمع ہمتیں۔ حوصلے۔

ہمکنہ۔ (۵- م۔ گین) [۵- ۱- مثن] جمع ہمتیں۔ حوصلے۔

ہمکنہ۔ (۵- م۔ گین) [۵- ۱- مثن] جمع ہمتیں۔ حوصلے۔

ہمکنہ۔ (۵- م۔ گین) [۵- ۱- مثن] جمع ہمتیں۔ حوصلے۔

ہمکنہ۔ (۵- م۔ گین) [۵- ۱- مثن] جمع ہمتیں۔ حوصلے۔

ہمکنہ۔ (۵- م۔ گین) [۵- ۱- مثن] جمع ہمتیں۔ حوصلے۔

ہمکنہ۔ (۵- م۔ گین) [۵- ۱- مثن] جمع ہمتیں۔ حوصلے۔

ہمکنہ۔ (۵- م۔ گین) [۵- ۱- مثن] جمع ہمتیں۔ حوصلے۔

ہمکنہ۔ (۵- م۔ گین) [۵- ۱- مثن] جمع ہمتیں۔ حوصلے۔

ہمکنہ۔ (۵- م۔ گین) [۵- ۱- مثن] جمع ہمتیں۔ حوصلے۔

ہمکنہ۔ (۵- م۔ گین) [۵- ۱- مثن] جمع ہمتیں۔ حوصلے۔

ہمکنہ۔ (۵- م۔ گین) [۵- ۱- مثن] جمع ہمتیں۔ حوصلے۔

ہمکنہ۔ (۵- م۔ گین) [۵- ۱- مثن] جمع ہمتیں۔ حوصلے۔

ہمکنہ۔ (۵- م۔ گین) [۵- ۱- مثن] جمع ہمتیں۔ حوصلے۔

ہمکنہ۔ (۵- م۔ گین) [۵- ۱- مثن] جمع ہمتیں۔ حوصلے۔

ہمکنہ۔ (۵- م۔ گین) [۵- ۱- مثن] جمع ہمتیں۔ حوصلے۔

ہمکنہ۔ (۵- م۔ گین) [۵- ۱- مثن] جمع ہمتیں۔ حوصلے۔

ہمکنہ۔ (۵- م۔ گین) [۵- ۱- مثن] جمع ہمتیں۔ حوصلے۔

ہمکنہ۔ (۵- م۔ گین) [۵- ۱- مثن] جمع ہمتیں۔ حوصلے۔

ہمکنہ۔ (۵- م۔ گین) [۵- ۱- مثن] جمع ہمتیں۔ حوصلے۔

ہمکنہ۔ (۵- م۔ گین) [۵- ۱- مثن] جمع ہمتیں۔ حوصلے۔

ہمکنہ۔ (۵- م۔ گین) [۵- ۱- مثن] جمع ہمتیں۔ حوصلے۔

ہمکنہ۔ (۵- م۔ گین) [۵- ۱- مثن] جمع ہمتیں۔ حوصلے۔

ہمکنہ۔ (۵- م۔ گین) [۵- ۱- مثن] جمع ہمتیں۔ حوصلے۔

ہندووانہ - (ہرن - ڈ - وا - نہ) [ن - ا - مذ] تمبروز - (۲) ہندوؤں جیسا طریقہ۔
ہندووانی - (ہرن - ڈ - وا - نی) [ن - صف] ہندوؤں کا۔ ہندوؤں سے منسوب۔
ہندووشان - (ہرن - ڈوؤس - ننان) [ن - ا - مذ] ملک ہند۔ بھارت۔
ہندووشانی - (ہرن - ڈوؤس - نا - بی) [ن - ا - مذ] ہند سے منسوب (۲) [نذ] ہندووشان کا باشندہ۔ (۳) [مٹ] ہندووشان کی زبان۔ آسان ہندی۔
ہندوئے حیرخ - ہندوئے فلک - [ن - ا - مذ] سیارہ چل جو سیارہ رنگ کا ہے۔
ہندی - (ہرن - ڈی) [ن - صف] (۱) ہند سے نسبت رکھنے والا۔ (۲) [نذ] ہندوستانی۔ ہند کا رہنے والا (۳) ہند کی زبان۔ (۴) ہندوستان کی تلوار۔
ہندی کی چندی کرنا - (۱) محاورہ (۲) خوب سمجھنا۔ آسان کو اور آسان کرنا۔ (۳) خوب چھان بین کرنا۔ کھو دکھو کر پوچھنا۔
ہندی کی چندی نکالنا - (۱) محاورہ (۲) بال کی کھال نکالنا۔ بہت محبت کرنا۔
ہندی تزاو - (ن - صف) ہندی النسل۔ ہندوستان کا باشندہ۔
ہنڈا - (ہرن - ڈا) [ن - ا - مذ] (۱) بڑی ہانڈی۔ مٹی کا برتن۔ مشکا۔ (۲) ہانڈی کی شکل کا بڑا فانوس۔ (۳) ایک قسم کی گھاس جو پانی کے کنارے ہوتی ہے۔
ہنڈا پھوڑنا - (۱) محاورہ (۲) داز فاش کرنا۔
ہنڈا کرنا - (۱) محاورہ (۲) کسی دیونا پر مٹھائیوں کے ہنڈے چڑھانا۔ (۳) کسی جات سے واپس آ کر ضیافت کرنا۔
ہنڈار - (ہرن - ڈار) [ن - ا - مذ] آگرگ۔ پھیرا۔
ہنڈانا - (ہرن - ڈا - نا) [ن - مص] شہریدہ کرنا۔ جلاوطن کرنا۔ (۲) گشت کرنا۔ پھیرنا۔ تشہیر کرنا۔
ہنڈاؤن - (ہرن - ڈا - ون) [ن - ا - مٹ] ہندی بھیجنے کا کمشن۔
ہنڈاؤندی کاٹنا۔
ہنڈا کلیا - ہنڈا کلیا۔ (ہنڈ - کل - یا - ہنڈ - گلہ - یا) [ن - مٹ] بچوں کی ہانڈی جو گھلیا یا پھولے سے برتن میں پکاتے ہیں۔ بچوں کے کھانا پکانے کا کھیل۔
ہنڈنا - (ہنڈ - نا) [ن - مص] مارے مارے پھینا تشہیر ہونا۔
ہنڈول - (ہرن - ڈول) [ن - ا - مذ] ہندی راگوں کا پانچواں راگ۔ صبح کا ایک راگ۔
ہنڈولا - (ہرن - ڈولا) [ن - ا - مذ] (۱) پالٹا۔ گموارہ۔ جھولا۔ ٹنگھوٹا۔ (۲) برسات کا گیت جو جھولے پر گایا جاتا ہے۔
ہنڈولا جھولنا - (۱) مٹ (۲) جھولا جھولنا۔ ہنڈولے میں جھولنا۔
ہنڈولی - (ہنڈ - وی - ہرن - ڈی) [ن - ا - مٹ] چمک۔

قیام - بقا۔
ہمیشہ - (ہ - سے - شہ) [ن - صف] دائم۔ مدام۔ آئے دن۔ سدا۔ نت۔ ہمیشہ روتے ہی جگر گزرا۔ (۱) متولد (۲) سدا مصیبت ہی میں مبتلا ہے۔ ہمیشہ سے چلا آتا ہے۔ (۱) مفولہ پرانا چین ہے۔ قدیم رسم ہے۔
ہمیل - (ہ - مذ) روپیوں کی جی ہونی جو گھگھے میں ڈالتے ہیں۔
ہمیں - (ہ - میں) [ن - مص] (۱) ہم سب کو۔ ہم تمام آدمیوں کو (۲) مجھ کو۔ مجھے۔ میرے تئیں۔
ہمیں پیٹے - (۱) مثل، سخت قسم جو کسی عزیز کو دی جاتی ہے۔ ہمارا نام کرے۔ ہمیں روتے۔
ہمیں چوگاں ہمیں میداں (ہمیں گو ہمیں چوگاں) (ن مثل) ہمیں نقلی کی جگہ ہے ہمیں آزمائش ہو جائے۔
ہمیں پچھ کام نہیں - (۱) تابع فعل) ہمیں پچھ غرض نہیں۔ ہمیں کوئی مطلب نہیں۔
ہمیں کیا - (۱) تابع فعل) ہم کو کیا مطلب۔ ہم کو کیا فائدہ۔
ہمیں - (ہ - میں) [ن - ص] منگولہ ہم ہی کا مختلف۔
ہمیں پر کیا ہے - (۱) محاورہ (۲) ہم ہی پر کیا موقوف ہے۔ ہماری ہی ذات پر منحصر نہیں ہے۔
ہمیں ہم - صرف ہم۔ تنہا ہم۔
ہمیں - (ہ - میں) [ن - تابع فعل] ایسی۔

ن - ۵

ہن - (ہ - مذ) [ن - ا - مذ] (۱) دن کے ایک قدیم سکے کا نام (۲) دولت۔ مال۔ زر۔
ہن برستا - (۱) محاورہ (۲) دولت برستا۔ خوب آمدنی ہونا۔
ہن پر ہن برستا - (۱) محاورہ (۲) دولت کی فراوانی ہونا۔
ہنٹر - (Hunter) ہن - (خر) [ن - مذ] کوڑا۔ چابک۔ (۲) شکاری۔
ہنچار - (ہرن - جار) [ن - ا - مذ] (۱) راہ۔ راستہ۔ (۲) مجازاً [طرز - روش - قاعدہ۔
ہنڈ - [ن - ا - مذ] ہندوستان۔ بھارت۔
ہنڈ رسہ - (ہرن - و - رسہ) [ن - ا - مذ] (۱) شکل۔ عدد۔ رقم۔ (۲) اقلیدس۔
ہنڈ رسہ دان - (ن - صف) علم ہنڈ رسہ کا عالم۔ اقلیدس کا عالم۔
ہندی - (ہرن - ڈی) [ن - ا - مٹ] ہندو عورت۔
ہندو - (ہرن - ڈو) [ن - ا - مذ] (۱) ہندوستان کا باشندہ۔ ہندستانی۔ ہندی۔ (۲) معشوق کے بشار کا بل۔ خیال سیاہ۔ زلف معشوق۔
ہندو مٹ - (۱) مٹ (۲) اہل ہند کا مذہب۔ ہندو دھرم۔

ہنسنا مارنا۔ (۱- محاورہ) بہت ہنسنا۔
ہنسنا نا۔ (ہنسنا نا) (۵- مص) [۱۱] ہنسی دلانا۔ خندہ دلانا۔ (۲) خوش کرنا۔
محظوظ کرنا۔

ہنسائی۔ [ہنسائی] (۱- مش) تعجبک ٹھٹھا۔ ہنسی۔
ہنس بول کر لہر کرنا۔ (۲- مص) خوش دلی کے ساتھ زندگی بسر کرنا۔
ہنس بول لینا۔ (۳- مص) ہنسی خوشی سے بات چیت کرنا۔
ہنس پڑنا ہنسنا۔ (۴- مص) [۱۲] دفعہ ہنسنے لگنا۔

ہنسنا۔ (ہنسنا) (۵- صفت) ہنسنا ہوا۔
ہنسنا پھول بستنی کلی۔ (۱- مش) نازک اور خوش مزاج آدمی جو اکثر مسکراتا
اور ہنسنا رہے مگر جسے ذرا بھی خلاف طبع بات گوارا نہ ہو۔
ہنسنا پھول۔ (۱- صفت) دوستی کے پردے میں دشمنی کرنے والا
ہنسنا ہونے۔ (۱- صفت) [۱۳] مذاق کرنے کرتے۔ (۲) باتوں باتوں میں۔
آسانی سے۔ (۳) خوش دلی سے گفتگو کرتے۔

ہنسنا ہنسنے جو ران دو نولوں کا آنا اور۔ (۱- مش) حاکم کی
تسزائہ ہنسی اور چوری کا نسی خرابی کا باعث ہوتی ہے۔
ہنسنا ہنسنے۔ (۱- تابع فعل) [۱۴] ہنسی ہنسی میں۔ مذاق میں (۲) نہایت
ہنسنے۔

ہنسنا ہنسنے سیرٹ میں مل پڑ جانا۔ (۱- محاورہ) نہایت ہنسنا۔
ہنسنا ہنسنے ٹوٹ جانا۔ (۱- محاورہ) ہنسی کے مارے غلط ہو جانا۔ ہنسی
کے مارے ٹوٹ ٹوٹ ہو جانا۔
ہنسنا ہی گھر لیتے ہیں۔ (۱- مش) ہنسی ہنسی میں کام بنتے ہیں۔ باتوں
باتوں میں مطلب نکل آیا کرتا ہے۔

ہنسنا۔ (ہنسنا) (۱- صفت) ہنستی ہوتی۔ ہنسنا کی تائید۔
ہنسنا پیشانی۔ (۱- مش) خندہ رونی۔ خندہ پیشانی۔
ہنسنا خلق۔ (۱- مش) [۱۵] خوش خلق۔ ہنسنا مگھ۔ ہنسنا ہنسنا۔
ہنسنا۔ (ہنسنا) (۱- مش) [۱۶] وہ ہڈی جو گردن کے نیچے ہوتی ہے۔
(۲) ایک قسم کا زیور جو گلے میں پہنا جاتا ہے۔
ہنسنا اتر جانا۔ (۱- محاورہ) شیرخوار بچے کے گلے کی ہڈی کا اپنی جگہ سے
کھسک کر تلسے اوپر ہو جانا۔

ہنسنا۔ (ہنسنا) (۱- محاورہ) ہنسنا اتر جانا۔
ہنسنا مگھ۔ (۱- مش) [۱۷] خوش مزاج۔ خوش طبع۔ خوش خلق۔ شکستہ زو۔
ہنسنا۔ (ہنسنا) (۱- مص) [۱۸] خندہ کرنا۔ کھکھلانا۔ کھکھنا (۲) مذاق
کرنا۔ دل گلی کرنا۔ چھیڑ خانی کرنا۔ (۳) ہنسی اڈانا تعجبک کرنا۔
ہنسنا بولنا۔ (۱- محاورہ) [۱۹] طرفت سے دل بہلانا۔ دل گلی کرنا۔ مذاق
کرنا۔ خوش دلی سے بات چیت کرنا۔

ہنسنا نا۔ (ہنسنا) (۱- مص) [۲۰] کسی پر ہنسنے کے لیے دوسرے کو
تحرک کرنا۔

ہنسنا۔ (۱- صفت) [۲۱] خوش طبع خوش مزاج۔
ہنسنا ہنسنا۔ (۱- محاورہ) تسخر کیا جانا۔ مذاق اڑایا جانا۔

کانڈر۔ روپیہ کا رقم۔ وہ رقم جو ساہوکار ایک جگہ سے دوسری جگہ
روپیہ وصول کرنے کے لیے دیتے ہیں۔ آج کل کے زمانے کا
ہنڈی بھینچنا۔ (۱- محاورہ) مہاجن کے ذریعہ روپیہ بھیجنا۔ ساہوکار سے
روپیے کا پرچہ لے کر روانہ کرنا۔

ہنڈی پینٹا۔ (۱- محاورہ) ہنڈی کا روپیہ وصول ہونا۔
ہنڈی سکارنا دکھا کرنا۔ (۱- محاورہ) ہنڈی کا روپیہ ادا کرنا۔
ہنڈی سیاہ جوگ۔ (۱- مش) [۲۲] ہنڈی جس کا روپیہ کچھ دیر بعد ملے
ہنڈی کرنا۔ (۱- محاورہ) ساہوکار کے ذریعہ سے ایک جگہ سے دوسری
جگہ روپیہ بھیجنا۔

ہنڈی کھڑی رکھنا۔ (۱- محاورہ) ہنڈی کو کسی جگہ سے ملتی رکھنا۔
ہنڈی یا۔ (ہنڈی) (۱- مش) [۲۳] ہنڈی کی تصغیر۔ (۲) مٹی کی دیچی۔
(۳) لکنا۔ [۲۴] ترکاری۔ سالن۔

ہنڈیا پکانا۔ (۱- محاورہ) [۲۵] سالن پکانا۔ ترکاری پکانا (۲) سازش
ہونا۔ [۲۶] ہی پکانا۔
ہنڈیا پکانا۔ (۱- محاورہ) [۲۷] سالن پکانا۔ ترکاری پکانا (۲) سازش
ہونا۔ [۲۸] ہی پکانا۔

ہنڈیا چڑھنا۔ (۱- محاورہ) ہنڈیا چولہے پر رکھنا۔ دال۔ ساگ
ترکاری چکنے کو رکھنا۔

ہنڈیا ڈونی۔ (۱- مش) [۲۹] کھانے پکانے کا سامان۔ باورچی خانے
کے برتن۔ (۲) گھر کا اسباب۔ اثاثہ البیت۔
ہنڈی۔ (۱- فر) [۳۰] فن۔ کام۔ کاریگری۔ حرفت۔ کمال۔
جوہر۔ صفت۔ (۲) کرتب۔ وصف۔ خوبی (۳) اندازہ۔ سلیقہ۔

حکمت۔ دانائی۔
ہنڈی چمکنا۔ (۱- مش) [۳۱] دشنی ہونو
کسی کا لہجہ بھی بہت بڑا عیب معلوم ہوتا ہے۔
ہنڈی پوٹ۔ (۱- مش) [۳۲] جامع الکلمات۔ بڑا ہنڈی مند۔
ہنڈی مند۔ (۱- مش) [۳۳] صاحب ہنڈی۔ باہنڈی۔ (۲)
دستا کار۔ کاریگری۔ صنایع۔

ہنڈی مند۔ (۱- مش) [۳۴] استاد۔ خوبی۔ جوہر۔
وصف۔ لیاقت۔ قابلیت۔ کمال۔ کاریگری۔ گن۔

ہنس۔ (۱- مش) [۳۵] ایک قسم کی بلخ۔ (۲) روح۔ آتما۔ جان۔
ہنس راج۔ (۱- مش) [۳۶] ایک قسم کی گھاس جو پانی کے کنارے پر یا پھاڑوں
پر بھرت پانی جاتی ہے (۲) مذکر ایک قسم کی آبی بط۔ قاز۔
راج ہنس۔

ہنسنا۔ (ہنسنا) (۱- مش) [۳۷] قتل۔ خون۔ کشت۔ خون۔ (۲) پاپ۔

گتہ۔ (۱- مش) [۳۸] ہنسی۔ قفقہ۔

ہنسنا۔ (۱- محاورہ) تسخر کیا جانا۔ مذاق اڑایا جانا۔

ہنسی سے مسخرہ بنا کر کھانی چاہئے۔
 ہنسی - (ہن - ہنی) (۱-۵) - مٹھ (۱۱) - خندہ - قہقہہ - (۲) - خوش طبعی - مزاج
 کھل - نسنہ - (۳) - تصحیک - فصیحی - (۴) - چیل - نہایت آسان کام -
 ہنسی اڑانا - (۱) - محاورہ - تصحیک کرنا - کسی پر ہنسنا -
 ہنسی اڑنا - (۱) - محاورہ - ذلت ہونا - مذاق بنایا جانا -
 ہنسی بٹھٹھا - (۱) - ہنسی - مذاق - دل لگی - (۲) - ذرا سی بات - کھیل - تماشا
 آسان کام -
 ہنسی خوشی - (۱) - مذ - خوشی سے - خوش ہو کر خوشی کے ساتھ - (۲)
 خوش خوش - غیر سیت کے ساتھ - بیخیریت تمام -
 ہنسی خوشی سے - (۱) - تابع فعل - رضا مندی سے -
 ہنسی خوشی کا سوا - (۱) - مذ - رضا مندی کا معاملہ -
 ہنسی سے کہنا - (۱) - محاورہ - مزاح کوئی بات کہنا -
 ہنسی سے لوٹنا - (۱) - محاورہ - ہنسی سے بیٹیاب ہو کر غلطاں ہونا -
 بے مہر ہنسنا -
 ہنسی ضبط کرنا - (۱) - مص - مرکب - ہنسی روک لینا -
 ہنسی کرنا - (۱) - مذاق کرنا - دل لگی کرنا - (۲) - رسوائی کرنا - بڑائی کرنا -
 تصحیک کرنا -
 ہنسی چیل - (۱) - مذ - (۱) - ہنسی بٹھٹھا (۲) - ذرا سی بات - آسان کام -
 ہنسی کی بات - (۱) - مرث (۱) - مذاق کی بات - غیر سخیہ بات -
 ہنسی ماننا - (۱) - محاورہ - کھیل بھینچنا -
 ہنسی میں اڑا دینا - (۱) - مذاق - (۱) - محاورہ - کسی بات کو مذاق میں
 ٹال دینا - بات پر توجہ نہ دینا -
 ہنسی میں پھول جھڑنا - (۱) - محاورہ - کسی کا ہنسنا اچھا معلوم ہونا -
 ہنسی میں ٹالنا - (۱) - محاورہ - کسی کی ناگوار بات کو مذاق میں لا کر
 آئی گئی کر دینا -
 ہنسی میں کھنسی ہو جانا - (۱) - محاورہ - ہنسی میں بگاڑ ہو جانا - مذاق
 میں بچھڑانا -
 ہنسی ہنسی میں - (۱) - تابع فعل - (۱) - دل لگی میں - مذاق میں -
 مذاق - (۲) - بلا وجہ - بلا سبب - بیرونی باتوں باتوں میں -
 ہنسی ہونا - (۱) - محاورہ - (۱) - مذاق ہونا - دل لگی - (۲) - ذلت ہونا -
 تصحیک ہونا -
 ہنسیا - (ہنس - یا) - (۱) - مذ - گھاس اور کھیتی وغیرہ کاٹنے کا اوزار -
 چھنکار - (۱) - مرث (۱) - ہال کی آواز (۲) - پشتی - حمایت -
 چھنکارا - چھنکاری - (ہن - کا - را - ہن - کاری) - (۱) - مذ - ہول -
 ہال - ہنکارا - ہنکارا -
 ہنکارا بھرنے - ہنکاری بھرنے - (۱) - محاورہ - (۱) - ہال کرنا - ہالی بھرنے -
 (۲) - اشارہ کرنا - بھگانا -
 ہنکارنا - (ہنکار - نا) - (۱) - مرث (۱) - ہنکارا بھرنے - ہول کرنا - (۲) - اشارہ
 کرنا - بھگانا -

ہنکارنا - (تی - مص) [ہنکار - ہنکارنا - نکال دینا -
 ہنکارنا - (۱) - مص [۱] پاس سے دور کرنا - (۲) - کھڈرنا - بھگانا -
 ہنکارنا یا جاننا - (۱) - محاورہ [۱] جانوروں کی طرح نفاق کیا جانا - (۲)
 دور کیا جانا - بھگانا یا جاننا -
 ہنکارا - (ہنکار - را) - (۱) - مذ [۱] جانوروں کو ہنکار شکاری کے بیٹھنے کی
 جگہ پر لانا -
 ہنکار - (ت - ۱) - مذ [۱] بھاری بھر کم پین - تکلیف - وقار - (۲) - ارادہ -
 قصد - (۳) - زور - قوت - بل - (۴) - صفت [۱] دانا - لیرک - ماقبل -
 (۵) - لشکر - سپاہ -
 ہنکارم - (ت - ۱) - مذ [۱] وقت - زمانہ - موقع -
 ہنکارمک - (ہنکار - مک) - (ت - ۱) - مذ [۱] مجمع - بھید - اثر و حاکم - انورہ - (۲) - ہنکار
 میدان - (۳) - شورش - دنگہ - فساد - گڑبڑ - (۴) - شور - عوفا - ہاتے
 ہو - (۵) - زور - شور -
 ہنکارمہ آرا - (ت - صفت) [۱] صفت آنا - جنگ برپا کرنے والا - (۲)
 فتنہ برپا کرنے والا -
 ہنکارمہ برپا کرنا - (۱) - محاورہ - فساد برپا کرنا - بھگانا کھڑا کرنا
 ہنکارمہ پرواڑ - (ت - صفت) ہنکارمہ کرنے والا - فساد -
 ہنکارمہ پرواڑی - (ت - ۱) - مرث (۱) - شورش کرنا - بوجہ کرنا - دنگہ کرنا -
 فساد اٹھانا - لڑائی کرنا - بھگانا کھڑا کرنا -
 ہنکارمہ کرنا - (۱) - محاورہ - فتنہ و فساد اٹھانا - شور و عوفا کرنا -
 ہنکارمہ گرم لہینا - (۱) - محاورہ - فتنہ و فساد یا شور و غول ہوتا رہنا -
 ہنکارمہ محشر - (ت - ۱) - مذ [۱] قیامت کے دن کا شور و عوفا - ہجوم -
 ہنکارمہ ہونا - (۱) - محاورہ [۱] بھگانا ہونا - فساد ہونا - (۲) - ادوہم ہونا (۳)
 زور شور ہونا -
 ہنکارمی - (ہنکار - می) - (ت - صفت) چند روز کا - خاص وقت تک کا -
 ہنکارمی - (ہن - گئی) - (تی - ۱) - مرث [۱] ایک قسم کی آتشبازی - (۲) - ایک
 قسم کا جنگلی چیل -
 ہنکار - (ہ - نو) - (ت - ۱) - مذ [۱] ہندو کی جمع -
 ہنکار - (ہ - نو) - (ت - ۱) - مذ [۱] ہنکار فعل [۱] ابھی تک -
 اس وقت تک - ابھی -
 ہنکار دینی دُور ہے - (ت - نسل) ابھی منزل بہت دُور ہے - ابھی
 مطلب پورا ہونے میں بہت دیر ہے -
 ہنکار روزا قول است - (ت - مش) ابھی وہی ابتدا والا معاملہ ہے -
 ابھی تک پھر ترقی نہیں کی ہے -
 ہنکارمان - (ہ - نو) - (ت - مان) [۱] ہندوؤں کا ایک دیوتا - ہندوؤں
 کا ایک روایتی سردار جس نے سینا جی کی بازیابی میں رام چندر جی
 کی مدد کی تھی - (۲) - بندر - بوڑھنہ -
 ہنکارنا - (ہن - نا) - (۱) - مرث [۱] گھوڑے کا بولنا -
 ہنکارنا - (ہن - نا) - (۱) - مرث [۱] گھوڑے کی آواز -

ہنسی مومن - (Honey Moon) (دہ - نبی - مومن) [انگ - ۱ - ہذا]
شاوی کا پہلا مہینہ جس میں دولہا و دلہن باہر نیکو تفریح کو چلے جاتے
ہیں - ماہ غسل - ماہ نویسیں۔

و - ۵

ہو - (۵ - ۱ - مرث) (۱) پکارنے یا بلانے کی آواز - (۲) بعض جنگلی جانوروں
کی آواز - (۳) [اُر] پیر و امین کی جگہ (۴) اگر ہو سکے کی جگہ -
ہو - (۱ - مرث) (۱) مذ [اُر] عربی صیغہ ہو (۲) کا بگاڑ (۳) صوفیوں کی اصطلاح
میں ذات باری تعالیٰ (۴) غل - ہنگامہ - حالت مستی میں منہ سے
نکلنے والی آہ (۵) [اُر] کنایتاً خوف - ڈر -
ہو ہو ہو - (۱) صفت - بے بند - بالکل ٹھیک ٹھیک - عربی میں ہو ہو ہو
دیہ و بی سے - تھا - فارسی والوں نے ہو ہو بنا لیا -
ہو سو حق - (۱ - مرث) (۱) وجد یا مستی کی حالت میں منہ سے نکلنے
والا نغمہ - (۲) شور و غل -
ہو سو حق کرنا - (۱ - محاورہ) (۱) خدا کا نام لینا - اللہ اللہ کرنا (۲) شور و غل
مچانا -

ہو سو حق ہو جانا - (۱ - محاورہ) (۱) فنا ہو جانا - مرث جانا - ناپید ہو جانا - (۲)
فنا فی اللہ ہو جانا -
ہو کا عالم - ہو کا مقام - ہو کا مکان - ہو کا میدان - (۱ - ۱) (۱) (۱) عالم
لاہوت (۲) اجاڑ - ڈیرا نہ - سنسان جگہ - جہاں آدمی کو دہشت معلوم
ہو -

ہو کرنا - (۱ - محاورہ) ڈر کر چھینا - چھینا - چیخ کر بھاگنا -
ہو ہو جانا - (۱ - محاورہ) دیرا نہ ہو جانا - سناٹا چھا جانا -
ہو - (۱) (۱) (۱) [ع] صیغہ مذکر غائب - وہ -
ہو الا اول والاخر - (ع - مقولہ) وہ (خدا) سب سے اول اور
سب سے آخر ہے -

ہو اللسانی - (ع - کلمہ دعائیر) خدا تعالیٰ شفا دینے والا ہے -
و طبیب نفل کی ابتدا میں لکھا کرتے ہیں -
ہو العفوف - (ع - صفت) وہ (خدا تعالیٰ) بخشش کرنے والا ہے -
ہو آنا - [اُر] میں [کیں] جا کر واپس آ جانا - لوٹ آنا - پلٹ آنا -
ہو - (۱) (۱) (۱) [ع] (۱ - مرث) (۱) خلا اور زمین کے درمیان کی فضا
(۲) باد - پون - ریح - (۳) حرص - ہوس - لالچ - (۴) آرزو -
ارمان - تمنا - اشتیاق - خواہش نفس - (۵) دوستی - خیر خواہی -
(۶) [اُر] سانس - دم نفس - (۷) و یا (۸) ادنیٰ مناسبت -
خفیف نسبت - (۹) اسکا - اثر (۱۰) ریح - میلان - انداز - وضع -
(۱۱) چرچا - شہرت - (۱۲) فنا - نیست - معدوم -

ہو آنا - (۱ - محاورہ) ہو کی رسائی ہونا -
ہو آ جانا - (۱ - محاورہ) (۱) بھرم لکھ جانا - ساکھ جاتی رہنا - (۲) تشریح

ہونا چرچا ہونا -

ہوا اکھڑ جانا - (۱ - محاورہ) عزت میں فرق ہونا - ساکھ جاتی رہنا -
ہوا اور ہو جانا - ہوا اور کچھ ہو جانا - (۱ - محاورہ) انداز بدل جانا -
انقلاب ہو جانا - پہلا سا انداز نہ رہنا -

ہوا باز - (۱) صفت - ہلنی جہاز چلانے والا - طیارہ لان -
ہوا بازی - (۱) صفت - (۱) صفت - طیارہ رانی - ہوا باز کا کام -
ہوا با تھنا - (۱ - محاورہ) (۱) جھوٹ نوٹ نام یا عزت فاقم کرنا (۲)
رعب جانا - (۳) نور کپڑا - (۴) فریگ مارنا - (۵) سماں باندھنا -
ہوا بتانا - (۱) بتلانا (۲) محاورہ) ٹال دینا -

ہوا بدلتا - (۱ - محاورہ) (۱) ہوا کا رخ بدلنا (۲) زمانہ کا رخ بدلنا - حالت
بدلتا - ڈھنگ بدلنا - (۳) زمانے کے موافق ہونا (۴) رت بدلنا یوم
پلٹنا - (۵) آب و ہوا تبدیل کرنا -

ہوا برخلاف ہونا - (۱ - محاورہ) زمانہ ناموافق ہونا -
ہوا بگڑ جانا - (۱) بگڑنا (۲) محاورہ) (۱) ہوا میں غمراہی آنا - ہوا میں فساد
ہو جانا - ہوا کا زہر ملا ہو جانا - (۲) زمانے کا ناموافق ہو جانا - زمانہ پھر جانا -
(۳) اعتبار اٹھ جانا - بات بگڑ جانا -

ہوا بندھنا - (۱ - محاورہ) (۱) دھاک بندھنا - شہرت ہو جانا - (۲) ساکھ
ہو جانا - رعب جانا - (۳) سماں بندھنا -

ہوا بھرجانا - (۱ - محاورہ) (۱) ہوا سے پھول جانا - (۲) کسی چیز میں ہوا
کا سما جانا - (۳) دھن سماں - (۴) مغرور ہو جانا - اترانا -
ہوا بھرتا - (۱ - محاورہ) جوت دار چیز میں منہ یا دھونکنی سے ہوا
پھینکانا تاکہ وہ پھول جائے -

ہوا بھرانا - (۱ - محاورہ) کبوتر یا فاختہ اپنے بچوں کو چونچ سے ہوا
دیتے ہیں تاکہ وہ اٹھ سکیں -
ہوا بھی نہ دینا - (۱ - محاورہ) (۱) ذرا بھی نہ دکھانا - خیر تک نہ دینا -
بالکل پتہ نہ دینا -

ہوا پیر اڑنا - (۱ - محاورہ) مغرور ہونا - اترانا -
ہوا پیر چڑھا دینا - (۱ - محاورہ) مغرور کرنا دینا -
ہوا پیر چٹھنا - (۱ - محاورہ) مغرور ہونا -
ہوا پیر دماغ ہونا - (۱ - محاورہ) متکبر ہونا -
ہوا پیر رہنا - (۱ - محاورہ) غرور میں بھرا رہنا

ہوا پرست - (۱) صفت - (۱) عیاش - بے ہودہ - ظاہر پرست
(۲) ہوا کے رخ پر چلنے والا - زمانہ ساز مطلب پرست -

ہوا پر سوار ہونا - (۱ - محاورہ) جلد باز ہونا - جانے میں جلدی کرنا -
ہوا پر گرہ لگانا - (۱ - محاورہ) (۱) کمال چلا کی کرنا - عیاری دکھانا - (۲)
ناممکن کام کرنا -

ہوا پر ہونا - (۱ - محاورہ) (۱) اترانا - فخر کرنا - گھمنہ کرنا - (۲) تیزی پر ہونا -
(۳) ظاہری ٹیپ ٹاپ کرنا -

ہوا پلٹا دینا - (۱ - محاورہ) (۱) ہوا کا رخ بدل دینا - (۲) زمانہ کا رنگ

پاس نہ پھینکا۔

ہوا سے لڑنا۔ (۱- محاورہ) خواہ مخواہ لڑنا۔ راہ چلتوں سے لڑنا۔ نہایت
بدمزاج اور تند خو ہونا۔

ہوا فر فر چلنا۔ (۱- محاورہ) ہوا کا تیزی سے چلنا۔
ہوا کا اڑنے جانا۔ (۱- محاورہ) ہوا کا سبک اشنا کو بلندی پر لے جانا۔
ہوا کا تھپتھپانا۔ جھکنا۔ (۱- مذ) ہوا کا زور کا جھونکا۔
ہوا کا تیز ہونا۔ (۱- محاورہ) ہوا کا سخت ناگوار ہونا۔
ہوا کا جھونکا۔ (۱- مذ) ہوا کی زور سے جنبش۔

ہوا کا رخ نینا۔ (۱- محاورہ) ۱۱، ٹالسا۔ چلتا کرنا۔ منہ نہ لگانا۔ (۲) کسی
بجز کو اٹھا کر پھینک دینا۔

ہوا کا رخ پھرننا۔ (۱- محاورہ) ۱۱، ہوا کا دوسری طرف چلنے لگنا۔ (۲)
دکنیہ زمانے کا رنگ بدلنا۔

ہوا کا رخ دیکھنا۔ (۱- محاورہ) زمانے کے موافق کام کرنا۔ زمانے کی
رفتار دیکھنا۔

ہوا کا کارخانہ۔ (۱- مذ) ناپائیدار کام۔

ہوا کا گزرنہ ہونا۔ (۱- محاورہ) رسائی نہ ہونا۔

ہوا کرنا۔ (۱- محاورہ) ٹھیک سے ہوا دینا۔ پیکھا جھلنا۔

ہوا کو گرہ دینا۔ ہوا کو گرہ میں باندھنا۔ (۱- محاورہ) ۱۱، ناممکن کام
کرنے کی کوشش کرنا۔ نہایت مشکل کام کرنا۔

ہوا کھانا۔ (۱- محاورہ) ۱۱، کھلی جگہ سیر کرنا۔ ہوا خوری کرنا (۲) رخصت ہونا
چلے جانا۔

ہوا کھاؤ۔ (۱- محاورہ) چلتے بنو۔ چلتے پھرتے نظر آؤ۔ دفع ہو۔ دفائی ہو
ہوا کھلانا۔ (۱- محاورہ) دکنیہ آؤں میں مزاج دکھانا۔ (۲) سیر کرنا۔

ہوا کھونا۔ (۱- محاورہ) ۱۱، وقعت مٹانا۔ ساکھ گنونا۔

ہوا کی چال۔ (۱- مثن) نہایت تیز چلنا۔

ہوا کی زوٹی۔ (۱- مثن) نان ہوا۔ ایک قسم کی نہایت تنبی روٹی۔

ہوا کی طرح چلنا۔ (۱- محاورہ) ۱۱، تیز چلنا۔ (۲) سبک چلنا۔

ہوا کے گھوڑے پر سوار ہونا۔ (۱- محاورہ) ۱۱، نہایت تیز و تند اور
جست و چالاک ہونا۔ جلد باز ہونا۔ (۲) مستکیر اور مغرور ہونا۔

ہوا گرم ہونا۔ (۱- محاورہ) ہوا میں حرارت ہونا۔ دکنیہ گرم بازاری ہونا۔
ہوا لگنا۔ لگ جانا۔ (۱- محاورہ) ۱۱، ہوا کا جسم سے چھو جانا۔ ہوا عروس
ہونا۔ (۲) ہوا کے اثر سے جسم کا اکر جانا۔ (۳) پیر پرانے نکلنا (۴) صحبت
کا اثر ہونا۔ مطلق اثر ہونا۔

ہوا لینا۔ (۱- محاورہ) ہوا کھانا۔

ہوا منھٹی میں بند کرنا۔ (۱- محاورہ) ایسا کام کرنا جو ناممکن ہو۔ بے
فائدہ محنت کرنا۔

ہوا مخالف ہونا۔ (۱- محاورہ) ۱۱، ہوا کا مخالف سمت میں چلنا۔ (۲)
دکنیہ زمانے کا ناسازگار ہونا۔

ہوا میں آجانا۔ (۱- محاورہ) اترنا۔ ڈینگ کی لینا۔

بدل دینا۔

ہوا پلٹ جانا۔ (پلٹنا)۔ (۱- محاورہ) انقلاب ہونا۔ رنگ و رنگ
ہونا۔ (۲) موسم بدل جانا۔ (۳) لیسے کا برگشتہ ہو جانا۔

ہوا پھانکنا۔ ہوا پھانک کے رہنا۔ (۱- محاورہ) فائقے سے رہنا۔
بھوکوں مرنا۔ صرف ہوا کے سہارے جینا۔ بغیر کھائے زندہ رہنا۔

ہوا پھرنانا۔ (پھرننا)۔ (۱- محاورہ) ہوا کا رخ بدل جانا۔ ہوا پلٹ جانا۔ (۲)
زمانہ پلٹ جانا۔ بھلے دن آنا۔ اقبال کا یا اور ہونا

ہوا پھلنا۔ (۱- محاورہ) دکنیہ زمانہ کا موافق ہونا۔ اقبال یا اور ہونا۔
ہوا پھلنا۔ (۱- محاورہ) ۱۱، ہوا کا جنبش میں آنا۔ (۲) کسی امر کا رواج پانا۔

رواج پڑنا۔

ہوا چھوڑنا۔ (۱- محاورہ) گور خارج کرنا۔ پادارنا۔

ہوا جھلس ہونا۔ (۱- محاورہ) ہوا بند ہونا۔

ہوا خلاف ہونا۔ (۱- محاورہ) ۱۱، باوجود مخالفت کا چلنا۔ (۲) زمانے کا ناموافق
ہونا۔

ہوا خواہ۔ (۱- مثن) خیر خواہ۔ بھلائی چاہنے والا۔

ہوا خواہی۔ (۱- مثن) خیر خواہی۔ ہی خواہی۔ خیر اندیشی۔

ہوا خوری۔ (۱- مثن) کھلی ہوا میں جا کر سیر و تفریح کرنا۔
ہوا دار۔ (۱- مثن)۔ (۱) خیر خواہ۔ طالب خواہش مند (۲) کشادہ

جگہ جس میں اچھی طرح ہوا کا گزر ہو۔ (۳) ایک قسم کی سواری جسے
کھار اٹھاتے ہیں۔ تمام بھام۔

ہوا داری۔ (۱- مثن) خواہش مندی۔ خیر خواہی۔ دوستداری۔
ہوا دیکھنا۔ (۱- محاورہ) ۱۱، زمانہ کا تشدید و فراز دیکھنا۔ (۲) انجام اور
وضع کی جانچ کرنا۔

ہوا دینا۔ (۱- محاورہ) ۱۱، ٹھیکے یا دامن سے ہوا دینا۔ (۲) ہوا میں
لکھنا۔ کسی چیز کو ہوا کھلانا۔ (۳) آگ کو ہوا سے سلگانا۔ آگ کو
پھرنانا۔ (۴) اشتعال دینا۔ آگسنانا۔

ہوا دینا نہ آنا۔ (۱- محاورہ)۔ ہوا کا ناموافق ہونا۔
ہوا زوٹی۔ (۱- مثن) لکام سردی۔ نزلہ۔

ہوا سا۔ (۱- تابع فعل) ۱۱، ذرا سا تخفیف سا (۲) ہوا کی مانند۔
ہلکا۔ سبک۔

ہوا سر میں ہونا۔ (۱- محاورہ) دھن ہونا۔ سودا ہونا۔
ہوا سامنا۔ (۱- محاورہ) دھن لگنا۔

ہوا سکننا۔ (۱- محاورہ) ہوا کا آہستہ آہستہ چلنا۔

ہوا سے آگے جانا۔ (۱- محاورہ) نہایت تیز جانا۔

ہوا سے اڑ جانا۔ (۱- محاورہ) نہایت لاغر اور ناتواں ہو جانا۔

ہوا سے بائیں کرنا۔ (۱- محاورہ) ۱۱، نہایت تیز رفتار ہونا۔ نہایت
پھرتلا ہونا۔ (۲) کمال اختیار اور چالاک ہونا۔ (۳) بہت اونچا ہونا۔
(۴) مغرور ہونا۔

ہوا سے بچ کر نکلنا۔ (۱- محاورہ) کمال نفرت کرنا۔ کسی سے دور بھاگنا۔

ہوسکتا۔ (ہوس۔ سکت)۔ (۱-۵)۔ مٹ [مٹ] عورتوں کا ایک مرض جس میں سب اعضاء حمل کے ہوتے ہیں لیکن حقیقتاً حمل نہیں ہوتا۔
 ہوسکتنا۔ [۱-۱]۔ مٹ [۱] ممکن ہونا (۲) امکان میں ہونا۔
 ہوسو ہوسو۔ [۱-۱]۔ تابع فعل، جہاں ہے جو کچھ ہو۔
 ہوش۔ [۱-۱]۔ [۱] مڈ [۱] عقل۔ دانش۔ دانائی۔ فہم۔ سمجھ۔ شعور۔ (۲)۔ نمبر۔ واقفیت۔ آگاہی۔ سدھ۔ (۳)۔ روح۔ دل۔ جان۔ (۴)۔ حواس۔ قوت مددک۔ حافظہ۔ حس۔ یاد۔
 ہوش آنا۔ (۱-۱)۔ محاورہ) ہوشیار ہونا۔ سنبھلنا۔ آپے میں آنا۔ (۲)۔ عقل آنا۔ غفلت دور ہونا (۳)۔ سیانا ہونا۔
 ہوش اڑا دینا۔ (اڑنا)۔ (۱-۱)۔ محاورہ) گھبرا دینا۔ بے اوسان کر دینا (۲)۔ باختہ کر دینا۔ (۲)۔ پیچھے کر دینا۔ حیرت میں ڈال دینا۔ بے خود کر دینا۔
 ہوش اٹھانا (اڑنا)۔ (۱-۱)۔ محاورہ) حواس باختہ ہو جانا۔ گھبرا جانا (عقل ٹھکانے نہ رہنا۔ حیرت میں آ جانا۔
 ہوش باختہ ہو جانا۔ (۱-۱)۔ محاورہ) گھبرا جانا۔
 ہوش بجا رکھنا۔ (۱-۱)۔ محاورہ) ہوش قائم رکھنا۔
 ہوش بجا رہنا۔ (۱-۱)۔ محاورہ) ہوش قائم رہنا۔
 ہوش بچھنا۔ (۱-۱)۔ محاورہ) ہوش پرکندہ ہونا۔
 ہوش برا کندنہ ہونا۔ (۱-۱)۔ محاورہ) حواس باختہ ہو جانا۔ ہوش بکھرنے۔
 ہوش پڑنا۔ (۱-۱)۔ محاورہ) ہوش قائم نہ رہنا۔ (اڑ جانا)۔ گھبرا جانا۔
 ہوش پکڑنا۔ (۱-۱)۔ محاورہ) (۱)۔ عقل حاصل کرنا۔ شعور پکڑنا۔ ہوشیار ہونا۔ (۲)۔ سیانا ہونا۔ سن تمیز کو پہنچنا۔
 ہوش پکڑو۔ (۱-۱)۔ محاورہ) سنبھلو۔ تمیز پیکھو۔ عقل کے ناخن لو۔
 ہوش ٹھکانے رہنا۔ (۱-۱)۔ محاورہ) ہوش و حواس درست ہونا۔
 ہوش جانا۔ ہوش جاتے رہنا۔ (۱-۱)۔ محاورہ) عقل گم ہونا۔ بے اوسان ہو جانا۔
 ہوش جمع ہونا۔ (۱-۱)۔ محاورہ) ہوش ٹھکانے ہونا۔
 ہوش نہا۔ (۱-۱)۔ (صفت) ہوش لے جانے والا۔ ہوش اڑا دینے والا۔
 ہوش رکھنا۔ (۱-۱)۔ محاورہ) صاحب ہوش ہونا۔ غیر دار رہنا۔
 ہوش سنبھالنا۔ (۱-۱)۔ محاورہ) (۱)۔ سیانا ہونا۔ بالغ ہونا۔ (۲)۔ تمیز پیکھنا۔ عقل حاصل کرنا۔
 ہوش سے باہر ہونا۔ (۱-۱)۔ محاورہ) بے خود ہونا۔ ہوش گم کرنا۔
 ہوش کا فور ہونا۔ (۱-۱)۔ محاورہ) ہوش جاتے رہنا۔
 ہوش کھونا۔ (۱-۱)۔ محاورہ) ہوش سے باہر ہونا۔
 ہوش کی بناؤ نمبر لو۔ دو اکرو۔ کی لو۔ کے ناخن لو۔ میں آؤ۔ (۱-۱)۔ محاورہ) سنبھلو۔ عقل کرو۔ سمجھو۔ اس موقع پر بولتے ہیں جب کسی عقل کے خلاف بات کرے۔
 ہوش کی لینا۔ (۱-۱)۔ محاورہ) سمجھ کی بات کرنا۔

فرد چٹھہ جانا۔ (۱)۔ طلوع ہونا چاند کا۔ (۲)۔ انزال ہونا۔
 ہوجیو۔ (ہو۔ جیو)۔ (۱)۔ کلہ دوما خدا کرے کہ ہوجائے۔
 ہوجینا۔ [۱-۱]۔ محاورہ) (۱)۔ نہیں ہونے کا صبر کرو۔ چھوڑ دو۔ (۲)۔ تمام ہو گیا۔ ختم ہو چکا۔ (۳)۔ گزر گیا۔ مر گیا۔
 ہوجینا۔ [۱-۱]۔ مٹ [۱] ختم ہو جانا۔ تمام ہو جانا۔ (۲)۔ خرچ ہو جانا۔ ضرورت ہو جانا۔ (۳)۔ مرجانا۔ دم نکل جانا۔ (۴)۔ ہو جانا۔ ہونا۔ (۵)۔ لڑائی ہونا۔
 ہودرج۔ (ہو۔ درج)۔ (۱-۱)۔ [۱]۔ ہودہ۔ عماری۔ (۲)۔ اونٹ کا کجاوہ۔ حمل۔
 ہودہ۔ (ہو۔ دہ)۔ (۱-۱)۔ [۱]۔ عماری جو باغی کی پیٹھ پر بیٹھنے کیواسطے رکھتے ہیں۔
 ہودہ۔ (ہو۔ دہ)۔ (۱-۱)۔ [۱]۔ صفت) ٹھیک۔ بجا۔ درست۔ سچی۔۔۔ (اردو میں بے ہودہ متعلق ہے)۔
 ہور۔ (رق) اور۔
 ہور رہنا۔ [۱-۱]۔ مٹ [۱]۔ کہیں رہ پڑنا۔ گھربنا لینا۔ (۲)۔ کسی کا ہو جانا۔ مستقل طور پر طرف دار ہو جانا۔ (۳)۔ کسی قابل ہو جانا۔ چھ حاصل ہو جانا۔
 ہوری۔ (ہو۔ ری)۔ (۱-۱)۔ مٹ [۱]۔ ہندوؤں کا ایک تنوار۔ ہولی۔
 ہوڑ۔ (۱-۱)۔ مٹ [۱]۔ شرط بازی۔ (۲)۔ داؤ۔ بیچ۔ گھات (۳)۔ قول۔ عمدہ۔ پختہ۔ (۴)۔ بحث۔ تکرار۔ (۵)۔ مقابلہ۔ برابری۔ سامنا۔
 ہوڑا۔ ہوڑی۔ دہڑا۔ ہڑا۔ ہڑی۔ (۱-۱)۔ مٹ [۱]۔ بحث۔ تکرار۔ بند۔ (۲)۔ مقابلہ۔ برابری۔ سامنا۔
 ہوزری۔ (Hosiery)۔ (ہوز۔ ری)۔ (انگ۔ ۱)۔ مٹ [۱]۔ موزہ۔ بیان وغیرہ کی تجارت کی دکان۔
 ہوس۔ (۱-۱)۔ (۱)۔ (۱)۔ مٹ [۱]۔ لایو گیا۔ جنبت۔ (۲)۔ شوق۔ اشتیاق۔ آرزو۔ نمانا۔ خواہش۔ (۳)۔ جھوٹا عشق۔ (۴)۔ لالچ۔ آرز۔ حرص۔ (۵)۔ شہوت نفسانی۔ خواہش۔ (۶)۔ حوصلہ۔ انگ۔
 ہوس اڑا دینا۔ (۱-۱)۔ محاورہ) ہوس چھوڑ دینا۔
 ہوس بچھنا۔ (۱-۱)۔ محاورہ) ہوس جاتی رہنا۔ خواہش پوری ہونا۔
 ہوس پرورد۔ ہوس پیشہ۔ (۱-۱)۔ (صفت) ہمت زیادہ حرص رکھنے والا۔ لالچی آدمی۔
 ہوس پیشہ۔ (صفت) وہ شخص جس کا دین و مذہب ہی حرص و آرزو ہوس کرنے والا۔
 ہوس ناک۔ (۱-۱)۔ (صفت) (۱)۔ لالچی حرصی۔ ہوس کا بھر ہوا۔ (۲)۔ پڑشور۔ ہوسناک بڑھیا پیشانی کا لنگھا۔ (۱)۔ (ش)۔ خوقین مزاج گریز غریب۔
 ہوس نکالنا۔ (۱-۱)۔ محاورہ) ارمان نکالنا۔ خواہش پوری کرنا۔ حوصلہ نکالنا۔
 ہوس نکالنا۔ آرزو پوری ہونا۔ ارمان نکالنا۔ دل کا حوصلہ نکالنا۔
 ہوسٹل۔ (Hostel)۔ ہوس۔ ٹل۔ (انگ۔ ۱)۔ [۱]۔ دارالافتاء۔ طلبہ کے رہنے کی جگہ۔ بورڈنگ ہاؤس۔

ہوش گم ہونا۔ (۱- محاورہ) ہوش اڑنا
 ہوش کوٹ۔ (ف صفت) ہوشیاری عقل سمجھ۔ دانائی۔
 ہوش مند۔ (ف صفت) ہوش والا۔ عقل مند۔ ذی شعور۔
 ہوش میں آنا۔ (۱- محاورہ) ہوشیار ہونا۔ تیز سیکھنا۔ (۲) آپسے میں آنا۔
 سنبھلنا۔ (۳) عبرت پیکڑنا۔
 ہوش میں آؤ۔ (۱- محاورہ) عقل سمجھو۔ تیز حاصل کرو۔ عقل سے بات کرو۔
 ہوش نہ رہنا۔ (۱- محاورہ) بدحواسی طاری ہونا۔ خبر نہ ہونا۔
 ہوش نہ ہونا۔ (۱- محاورہ) حواس درست نہ ہونا۔ سدھ نہ ہونا۔
 ہوش والا۔ (ف صفت) ہوش مند۔ ہوشیار۔ سبانا۔ بانہر۔
 ہوش دھواس۔ (ف صفت) غفلت و تیز۔
 ہوش دھواس اڑ جانا۔ (۱- محاورہ) عقل ٹھکانے نہ رہنا۔ اوسان جاتے
 رہنا۔
 ہوش بہن ہوجانا (ہوا ہونا)۔ (۱- محاورہ) ہوش اڑ جانا۔ گھبرا جانا۔
 ہوش ہونا۔ (۱- محاورہ) سدھ ہونا۔ غیر ہونا۔ حواس درست ہونا۔
 ہوشیار۔ (ف صفت) (۱) نیم۔ (۲) غافل۔ (۳) غبوار۔ (۴) عیار۔
 چالاک۔ (۳) جاگتا۔ بیاد۔ چوکس۔ چوکتا۔
 ہوشیار کرنا۔ (۱- محاورہ) (۱) آگاہ کرنا۔ خبردار کرنا۔ جتانا۔ منذہبہ کرنا۔ (۲)
 جگانا۔ بیاد کرنا۔ (۳) غفلت سے ہوش میں لانا۔
 ہوشیار ہوجانا۔ (ہونا) (۱- محاورہ) (۱) ہوش میں آجانا۔ (۲) بیاد ہوجانا۔
 (۳) چوکس ہوجانا۔ (۴) بڑا ہوجانا۔ سبانا ہوجانا۔ جوان ہوجانا۔
 ہوشیاری۔ (ف صفت) (۱) ہوشیاری۔ (۲) دانائی۔ (۳) خبرداری۔ چوکسی۔
 (۴) دورانہیزی۔ (۵) عیاری۔ چترائی۔ (۶) احتیاط۔
 ہوک۔ (۱-۱-۱) (۱) ہوش۔ (۲) ہوش۔ (۳) ہوش۔ (۴) ہوش۔ (۵) ہوش۔
 اٹھے۔ (۲) گراہ۔
 ہوک اٹھنا۔ (۱- محاورہ) درد ہونا۔ پہلو میں درد اٹھنا۔
 ہوگا۔ (ہو۔ کا) (۱- ۵) (۱) کھانے کی بے انتہا حرص۔ (۲) لالچ۔ کسی چیز کی
 بے انتہا خواہش۔
 ہوگا کرنا۔ (۱- محاورہ) بہت لالچ کرنا۔
 ہوگا لگت۔ (۱- محاورہ) بہت سی ہوس کرنا۔
 ہو کر۔ ہو کے۔ (۱) تابع فعل [۱] پاس سے۔ نزدیک۔ (۲) درمیان سے۔
 (۳) ہوتے ہوئے۔ گزرے ہوئے۔ (۴) ضرور۔ لا بُد۔
 ہوگا۔ (۱) تابع فعل [۱] شاید۔ (۲) شک کے مقام پر بولتے ہیں
 ہو کر کرنا۔ (۱) (۲) گزرے ہوئے زمانے میں ہونا۔ (۳) واقع ہونا۔
 (۴) ختم ہونا۔
 ہول۔ (ع ۱- ۱) (۱) خوف۔ ڈر۔ خطر۔ اندیشہ۔ (۲) اضطراب۔ گھبراہٹ۔
 ہول آنا۔ (۱- محاورہ) دہشت سما جانا۔ ڈرنا۔
 ہول اٹھنا۔ (۱- محاورہ) خوف پیدا ہونا۔ دہشت سے گھبرا جانا۔
 ہول بیٹھ جانا۔ (۱- محاورہ) ڈر بیٹھ جانا۔ خوف چھا جانا۔ خوف سما جانا۔
 ہول پڑنا۔ (۱- محاورہ) خوف پڑنا۔ دہشت ہونا۔ (۲) اضطراب ہونا۔

گھبراہٹ ہونا۔
 ہول بیکار۔ (۱- ۱) (مشت) شور و غوغا۔
 ہول بھول۔ (۱- ۱) (مشت) گھبراہٹ۔ اضطراب۔ جلدی۔
 ہول دل۔ (ع ۱- ۱) (مشت) دل کی دھڑکن۔ اختلاج قلب۔
 خفتان۔
 ہول دل ہونا۔ (۱- ۱) (مشت) دھڑکن ہونا۔ دل دھڑکنا۔
 ہول دلا۔ (۱- ۱) (مشت) بزدلی۔ نامرد۔ ڈرپوک۔
 ہول دلی۔ (۱- ۱) (مشت) (۱) گلے میں ڈانٹنے کی ایک چیز جس سے دل کا
 خوف دور ہوجاتا ہے۔ (۲) گھبراہٹ (۳) بزدلی۔
 ہول رہنا۔ (۱- محاورہ) خوف اور گھبراہٹ رہنا۔
 ہول زدہ۔ (ع ۱- ۱) (مشت) خوف زدہ۔ دہشت کا مارا ہوا۔
 ہول سما۔ (۱- محاورہ) دہشت سما۔ خوف سما۔
 ہول کھانا۔ (۱- محاورہ) ڈرنا۔ ڈر جانا۔ دہشت میں رہنا۔
 ہول ناک۔ (ع ۱- ۱) (مشت) بھیانک۔ ڈراؤنا۔ مہیب۔ خوفناک۔
 ہیبت ناک۔
 ہول۔ (۱- ۱) (مشت) دھکا۔ صدمہ۔ ضرب۔ کسی دھار والے آلے
 کا چھوٹنا۔
 ہول چلنا۔ (۱- محاورہ) گھونپا جانا۔ ہول مارنے لگنا۔
 ہول ڈینا۔ (۱- محاورہ) (۱) ہول مارنا۔ (۲) کناہتہ۔ کسی کام کے لیے
 اشتعال دینا۔
 ہول لا۔ (ہو۔ لا) (۱- ۱) (مشت) گھبرا ایا ہوا۔ بوکھلایا ہوا۔
 ہول جولی۔ (۱- ۱) (مشت) (۱) گھبراہٹ۔ اضطراب۔ بے تابی (۲) بھاگنا۔
 افراتفری۔
 ہول خبطا۔ (۱- ۱) (مشت) بدحواس۔
 ہول لا۔ (ہو۔ لا) (۱- ۱) (مشت) [۱] بھٹنے ہوئے بھڑکنے۔
 ہول کھانے منہ ہاتھ دونوں کالے۔ (۱) (مشت) بڑے کام میں ہر
 طرح کی بدنامی ہوتی ہے۔
 ہول لا۔ (ہو۔ لا) (۱- ۱) (مشت) [۱] ہول بھٹنے سے بھڑکنے کی نوک کا صدمہ۔
 ہولنا۔ (ہول۔ نا) [۱- ۱] (مشت) [۱] آئینہ لگانا۔ (۲) قیل باتوں کا بھٹنے کو
 چلانا۔ (۳) دھکیلنا۔ ریلنا۔
 ہول تو۔ (ہو۔ تو) [۱- ۱] (مشت) [۱] (۱) نملوں مزاج۔ (۲) احمق۔ گادوی۔ ہونٹ۔
 ہولی۔ (ہو۔ لی) (۱- ۱) (مشت) ہندوؤں کا ایک تیوہار جو موسم بہار میں
 منایا جاتا ہے۔
 ہولی جلتا۔ (۱- محاورہ) ہولی کے دن کڑیوں کا ڈھیر جلتا۔
 ہولی کا بھڑوا۔ (۱- ۱) (مشت) وہ جس پر ہولی کے دن خوب رنگ وغیرہ
 ڈال کر سخو بنایا جائے۔
 ہولی بھیلنا۔ (۱- ۱) (مشت) ہولی کے دن ایک دوسرے پر رنگ چھڑکنا۔
 خوشیاں منانا۔
 ہولے۔ (ہو۔ لے) [۱] تابع فعل [۱] سچ۔ آہستہ۔ تندرست۔

نہ کرو۔ (۳) کیا پروا ہے۔ کچھ ڈر نہیں۔
ہونے کے دن۔ (۱) مذ [جین کا زمانہ۔
ہونے والا۔ (۱) صفت (۱) ہونہار۔ ہونے جوگ۔ (۲) پیش آنے والا۔

ہونٹ - (۱) لب (۱) منہ کے اوپر اور نیچے کا حصہ۔
ہونٹ پیرانا۔ (۱) محاورہ (۱) لبوں کا تشکی یا تشکی کے سبب نہایت
خشک ہونا۔ پیرپی بند ہونا۔

ہونٹ پھٹ جانا۔ (۱) محاورہ (۱) ہونٹ میں شدت سردی سے
شکاف پڑ جانا۔
ہونٹ تنک نہ لانا۔ (۱) محاورہ (۱) منہ سے بات تک نہ نکلنا۔ منہ
سے اشارہ تک نہ ہوسکتا۔

ہونٹ چائنا۔ (۱) محاورہ (۱) شیریں چیز کھانے کے بعد ہونٹوں پر
زبان پھینا۔ (۲) منہ سے وارسی کا وقت یا ذکر کھنا۔
ہونٹ چاٹنے سے پیاس نہیں بجھتی۔ (۱) پیش (۱) تھوڑی سی امداد
کا کچھ فائدہ نہیں۔

ہونٹ چبانا۔ (۱) محاورہ (۱) غصے کی حالت میں ہونٹوں کو دانتوں
سے کاٹنا۔
ہونٹ چکینا۔ (۱) محاورہ (۱) منہ سے باعث لب بند ہونا۔
ہونٹ چوسنا۔ (۱) محاورہ (۱) مساس کی ایک حرکت۔

ہونٹ خشک ہونا۔ (۱) محاورہ (۱) منہ کو کھنا (۲) دما مت یا غلبہ
تشکی سے ہونٹ سوکھنا
ہونٹ سہی دینا۔ (۱) محاورہ (۱) منہ بند کر دینا۔ خاموش کر دینا۔ چپ
لگا دینا۔

ہونٹ سہی لینا۔ (۱) محاورہ (۱) چپ ہونا۔ خاموش ہونا۔
ہونٹ سے ہونٹ ملانا۔ (۱) محاورہ (۱) لب بر لب ہونا۔
ہونٹ کاٹنا۔ (۱) محاورہ (۱) افسوس ظاہر کرنا۔ (۲) جلنا۔ جسد کرنا۔
(۳) ہونٹ چبانا۔

ہونٹ کٹنا۔ (۱) صفت (۱) کٹے ہوئے ہونٹ والا۔
ہونٹ ملنا۔ (۱) صفت (۱) زبان درازی کی سزا دینا۔
ہونٹ کول تو دو دھکل پڑے۔ (۱) پیش (۱) ابھی دو دھ پیتے بچے
ہو۔ ذرا زور کر دوں تو سپاہی ہوا دو دھکل پڑے۔

ہونٹ نیلے ہونا۔ (۱) محاورہ (۱) زیادہ سردی یا چوٹ لگنے یا زہر کے
اثر سے ہونٹ نیلے ہونا۔
ہونٹ ہلانا۔ (۱) محاورہ (۱) ہونٹ کو حرکت دینا۔ بولنا۔ بات کرنا۔
ہونٹوں پر سپریاں جھنا۔ (۱) محاورہ (۱) تشکی یا حدت سے لبوں پر سپریاں
بندھنا۔

ہونٹوں پر چھٹی کا دودھ یاد آجانا۔ (۱) محاورہ (۱) شدید مصیبت میں
مثلاً ہونا۔
ہونٹوں پر زبان پھیرنا۔ (۱) محاورہ (۱) ذائقہ لینا۔ گھل سٹ میں بھی ایسا

ہونے سے۔ (۱) تابع فعل (۱) آہستہ سے۔ بلکے سے۔
ہونے ہونے۔ (۱) تابع فعل (۱) آہستہ آہستہ۔ ٹھہر ٹھہر کر۔ سبج۔
ہو لینا۔ (۱) ہونے۔ (۱) [میں (۱) ہو چلنا۔ ہو جانا۔ (۲) پورا ہونا۔ تمام ہونا۔
کسی طرف کا راستہ اختیار کرنا۔ (۳) ساتھ چلنا۔ (۵) لڑائی ہونا۔
ہوم۔ (۱) [میں ہون۔ ہندوؤں کی ایک مذہبی رسم جس میں منتر پڑھتے
ہونے آگ میں بھی ڈالتے جلتے ہیں۔

ہوم۔ (Home) (انگ۔ ۱) مذ [گھر۔ مکان۔ وطن۔
ہوم ڈیپارٹمنٹ۔ (Home Department) (انگ۔ ۱) مذ
محکمہ امور داخلہ۔
ہوم رول۔ (Home Rule) (انگ۔ ۱) مذ [حکومت خود اختیاری۔
ہوم سیکرٹری۔ (Home Secretary) (انگ۔ ۱) مذ [محکمہ امور
داخلہ کا سیکرٹری۔

ہوم منسٹر۔ (Home Minister) (انگ۔ ۱) مذ [ولیر داخلہ۔
ہومیوپیتھ۔ (Homoeopath) (ہوم۔ ۱) یو۔ پیتھ (انگ۔ ۱) مذ
علاج بالمثل کا ڈاکٹر۔
ہومیوپیتھک۔ (Homoeopathic) (ہوم۔ ۱) یو۔ پے [تھک (انگ۔
[صفت] علاج بالمثل سے متعلق۔ ہومیوپیتھی کا۔

ہومیوپیتھی۔ (Homoeopathy) (انگ۔ ۱) [صفت] علاج بالمثل۔
گرمی کا گرمی اور سردی کا سردی سے علاج۔
ہون۔ (۲) [وَن] (۱) [س۔ ۱] مذ [دیکھے "ہوم"
ہون۔ (۱) فعل ناقص [ہاں۔ بلے۔ کھڑا قبائل واقرا یا اجازت۔
ہون کرنا۔ (۱) محاورہ (۱) زبان سے ہاں کہنا۔ رضامندی ظاہر کرنا۔
(۲) ٹوٹنا۔ روکنا۔

ہون ہاں کرنا۔ (۱) محاورہ (۱) صاف جواب نہ دینا۔ ٹال مٹول کرنا۔
آرے بلے کرنا۔ (۳) بچہ کا پیلے پیل بولنے لگنا۔
ہون ہاں نہ کرنا۔ (۱) محاورہ (۱) دم نہ ماننا۔ چپ رہنا۔
ہون ہون۔ (۱) [گمہ ایجاب و انکار (۱) [گمہ جس سے انکار و اقرار
دونوں باہم ثابت ہوتی ہیں۔ (۲) کسی بات کو روکنے کا کلہ۔
ہون ہون کرنا۔ (۱) محاورہ (۱) ہاں ہاں کرنا۔ منہ سے ہوں ہوں
کی آواز نکلنا۔ (۲) ٹالنا۔ ٹال مٹول کرنا۔ (۳) روکنا۔ ٹوٹنا۔

ہونا۔ (ہونا۔ ۱) [میں (۱) پیدا ہونا۔ جنم لینا۔ (۲) ظاہر ہونا۔ (۳) واقع
ہونا۔ وارد ہونا۔ پیش ہونا۔ (۴) موجود ہونا۔ رہنا۔ (۵) بچہ پیدا ہونا۔
تولد ہونا۔ (۶) انزال ہونا۔ جھلنا۔ (۷) حاصل ہونا۔ ملنا۔ ہم پہنچنا۔
(۸) معلوم ہونا۔ (۹) ٹھہرنا۔ قرار پانا۔ تسلیم کیا جانا۔ (۱۰) گزنا۔ بیننا۔
ہونا نہ ہونا۔ (۱) محاورہ (۱) ہست و نیست۔ عدم وجود۔ (۲) موجودگی
عدم موجودگی۔

ہونا ہونا۔ (۱) محاورہ (۱) کسی فعل کا سرد ہونا۔ (۲) نقصان ہونا۔ ضرر پہنچنا۔
کسی فعل کا بااثر ہونا۔
ہونے دو۔ (۱) [میں (۱) ہونے دو۔ ہوجانے دو۔ (۲) مت روکو منع

ہونما ربر دے کے جگے جگے بات - (۱) مثل) ہونما ربر دے کے
 آتار پہلے ہی لپچھے نظر آتے ہیں -
 ہونما رطقی نہیں ہمووے کسے کہ پیش - (۱) مثل) شدنی ہو کر رہتے
 ہیں -

ہونہ ہو - (۵) بان فعل (۱) غالباً (۲) یقیناً -
 ہونی - (ہو - نی) (۵) - (۱) مٹ) شدنی قسمت کا لکھا -
 ہونے والی - ہونے والی بات - (۵) - (۱) مٹ) شدنی - ہونی -
 پیش آنے والی - قسمت کا لکھا -
 ہوا - (ہو - ہا) (۵) - (۱) مٹ) غل - شور - (۲) ہنسی ٹھٹھے کی آواز -
 ہوا - (۳) کبوتروں کے اڑنے کی آواز -
 ہوا کرنا - (۱) محاورہ (۱) غل چمانا - شور مچانا - (۲) تھمہ لگانا - (۳) کبوتر لگانا
 ہوا چکنا - (۱) مص) ہوا چکنا بہتر ہو جانا -
 ہونی ہے نہ ہونی - (۱) مقولہ مکان نہیں - ہرگز نہیں ہو سکتی - یہ بات
 سمجھی نہ ہونی ہے نہ آئے ہو سکے گی -
 ہویدا - (۵) - (۱) ف) صفت ظاہر عیاں - آشکارا واضح
 صاف - صریح -

کہا جاتا ہے -
 ہونٹوں پر سنسی ہونا - (۱) محاورہ) مسکراہٹ ہونا -
 ہونٹوں سے ہاتھیں کرنا - (۱) محاورہ) اس طرح بات کرنا کہ لب
 نہیں مگر آواز نہ آئے
 ہونٹوں سے دودھ کی بوتلیں گئی - ہونٹوں سے ابھی دودھ کی
 بوا آئی ہے - (۱) مثل) ابھی پیٹ خوار کچے ہو - ابھی نادان ہو - ابھی
 دودھ پینا چھوڑا ہے - نا تجربہ کار ہو نہ آتا کرنا -
 ہونٹوں سے لگانا - (۱) محاورہ) لب آنا کرنا -
 ہونٹوں کا ہنا - (۱) محاورہ) آہستہ بات کرنا -
 ہونٹوں کی مٹی پونچھو - (۱) مثل) بات کرنے کا سلیقہ سیکھو - سلیقے سے
 بات کرو -
 ہونٹوں میں مسکرانا - (۱) محاورہ) اس طرح مسکرانا کہ دانت نہ نکلیں
 اور ہونٹ ہی بل کر رہ جائیں - خندہ زیر لب -
 ہونٹوں ہونٹوں میں - (۱) تابع فعل) ہونٹوں کے اشارے سے -
 ہونٹ - ہونٹوں - (۱) ہوں - ہوں - (۱) مٹ) (۵) - صفت) بڑے
 بڑے اور بڑے موٹے ہونٹوں والا -

ہ - می

ہمی - (۱) ایک کلمہ جو کلمات کے آخر میں آتا ہے (۱) فقط - صرف - اکیلا -
 تنہا - محض - (۲) بالکل - ذرا - تھوڑا - (۳) ضرور - (۴) فوراً - ذریعہ - وجہ
 سے - (۵) تخصیص تاکید کا حرف -
 ہئے - (۱) تابع فعل) ہونا سے مشتق - حاضر - موجود -
 ہئے تو (یہ) یوں - (۱) بول چال) اصل بات یہ ہے -
 ہئے - (۱) حرف نداء) ہائے کا مخفف) افسوس - ہائے - تنبیہ -
 تخیل اور نذا کے لیے آتا ہے -
 ہئے ظالم - (۱) کلمہ تاسف) ہائے ظالم - ہائے کم بخت - ہائے افسوس -
 ہئے غضب - (۱) کلمہ تاسف) غضب ہوا - ستم ہوا -
 ہئے ہے - (۱) کلمہ تاسف) ہائے - ہائے افسوس -
 ہئے کے کہے پینا - (۱) محاورہ) (۱) نوحہ کر کے رونا - (۲) کسی کے
 مرنے کی آرزو کرنا -
 ہئے ہے نہ کھٹے کھٹے - (۱) مثل) جھگڑا نہ لٹا - جھک جھک نہ کبکب -
 ہمیاء - (۵) - (۱) یا) (۵) - (۱) دل - من - چپت - کلیجہ - جگر - قلب - (۲) ہوش
 حواس - جرات - دلیری - حوصلہ -
 ہمایا - (۵) - (۱) یا - او) (۵) - (۱) مذ) حوصلہ - ہمت - جرات -
 ہمایا و پڑنا - (۱) محاورہ) بہت بڑنا -
 ہمایا و نفل جانا - (۱) محاورہ) دل کا ڈر جانا رہنا - جھک مٹ جانا -
 ہیدیت - (۱) ہئے - بت) (ع - ۱) مٹ) [دہشت - رعب - ڈر -
 ہیدیت چھانا - (۱) محاورہ) ڈر جانا - گھبرانا - رعب میں آجانا -

ہونٹھ - (۱) - (۱) مذ) دیکھیے ہونٹھ -
 ہونٹھی - (ہوں - ٹھی) (۵) - (۱) مٹ) (۱) گھوڑے کا دہانہ - (۲) دہانے
 کی زنجیر -
 ہونس - (۵) - (۱) مٹ) (۱) نظر بد - ٹوک - (۲) رشک - حسد - جلن - (۳)
 عداوت - بیرغبت -
 ہونس سے ریش ٹھلی - (۱) مثل) حسد سے رشک اچھا - عداوت
 سے رشک اچھا ہے -
 ہونس کا کھا جانا - (۱) محاورہ) نظر بد کا اثر ہو جانا -
 ہونس لگانا - (۱) محاورہ) نظر بد لگانا -
 ہونس لگ جانا - (۱) محاورہ) نظر لگ جانا - ٹوک میں آجانا -
 ہونسا - (ہوں - سا) - (۵) - صفت) حاسد -
 ہونسا سو ہونسا - (۱) مثل) حاسد آپ اپنا ہی نقصان کرتا ہے -
 ہونسا - (ہونس - نا) (۱) مص) (۱) نظر بد لگانا - ٹوکنا - (۲) جلنا -
 حسد کرنا - (۳) بولتی چاہنا -
 ہونق - (۵) - (۱) ون - نق) (۱) عربی بیدق کا مورتہ - صفت) [احق -
 بے وقوف - جاگنو - جوشی -
 ہونکننا - (ہونک - نا) (۱) مص) (۱) بانہنا - سانس پھولنا - (۲) شیر
 کا بولنا -
 ہونگے لوٹ تو لوچیں گے جھوت - (۱) مثل) اولاد کی امید
 پر جھوت پر ریش کی پرستش بھی منظور ہے - کچھ نفع ہو تو
 خدمت بھی کریں -
 ہونما ر - (ہوں - ہار) (۵) - صفت) ہونے والا - (۲) وہ جس میں
 لیاقت اور قابلیت کے آثار ملتے جائیں -

ہیبت زدہ - (ع - ف - صفت) ڈرا ہوا، خوفزدہ، سہا ہوا۔
 ہیبت سلطانی - (ف - ا - صفت) شاہی رعب و دہرہ۔
 ہیبت ناک - (ع - ف - ا - صفت) خوف ناک، ہیبت - ڈراؤنا،
 خطرناک، پرخطر۔
 ہیپس کالپس - (Habeas Corpus) (سہ - ب - یس - کار - پس) - (انگ - ا - مٹ) [مٹوں پر مقدمہ چلانے کے لیے ان کو عدالت کے سامنے پیش کرنے کا حکم نامہ۔ پروانہ رضامندی، طرز۔ ہیبت - (ہ - ا - مذ - بیائے معمول مٹ) دا، سبب - باعث - کارن - (۲) لکن - لوتعلق - عشق - محبت۔
 ہیٹ - (Hat) [انگ - ا - مذ] انگریزی ٹوپی۔
 ہیٹ - (ہ - تابع فعل) (۱) بیچے - تلے - زیر (۲) [صفت] پست نیچا۔
 (۳) کیمنٹ - سفلیہ - (۴) ذیل - خراب۔
 ہیٹا - (ہے - ٹا) [ا - صفت] (۱) چھوٹا - گھٹیا - ناقص - (۲) کیمنٹ - سفلیہ - پست - ہمت - کمزور - بزدل - ڈر لوک - (۳) ادنیٰ - کم درجہ کا کم ترہ - کا - (۴) بودا۔
 ہیٹر - (Heater) (ہی - ٹر) [انگ - ا - مذ] گرم کرنے کا ٹول یا گھینٹی
 ہیٹی - (ہے - ٹی) (۱ - ۱۰ مٹ) [ذلت - شکی - بدنامی - رسوائی - بیقیدی - ہیٹی - تحقیر - (۱ - محاورہ) رسوائی کرنا - بے عزتی کرنا - (۱ - محاورہ) ذلت ہونا - سبکی ہونا - ٹک کٹی ہونا - رسوائی ہونا۔
 ہیجا - (سہ - جہا) [ع - ا - مٹ] جنگ - لڑائی - رزم۔
 ہیجان - (سہ - جان) [ع - ا - مذ] (۱) جوش - ابال - (۲) تیزی - شدت - زور - غلبہ۔
 ہیچر - (ہیج - ٹرا) [ہ - ا - مذ] (۱) وہ شخص جس کے خبیث اور عضو تناسل کاٹ ڈالے گئے ہوں - مخنتش - خواجہ سرا - (۲) [صفت] نامرد - زمانہ - زرخا - بودا۔
 ہیچر بنانا - (۱ - محاورہ) (۱) نامرد بنانا - زرخہ بنانا - عضو تناسل کاٹ کر مخنتش بنانا۔
 ہیچرے کا اللہ میاں نے اٹھنی کا اعتبار نہیں کیا - (۱) [مٹ] ہیچر کا بالکل اعتبار نہیں ہے۔
 ہیچرے کے گھر بیٹا ہوا - (۱) [مٹ] نامکس بات ہوگی - اچھنے کی بات ہوگی۔
 ہیج - (ف - صفت) (۱) معدوم کچھ نہیں - (۲) کم قلیل - (۳) نکما - ناکارہ - (۴) قابل نفرت - زلزل - (۵) پوچ۔
 ہیج آفت نہ رسد گوشہ تنہائی لا - (۱) [ف - مٹ] جو سب سے الگ ہو گیا وہ سچ و غم سے مخات پھیا۔
 ہیج سمجھنا - (۱ - محاورہ) ناچیز سمجھنا - حقیر جاننا۔
 ہیج کارہ - (ف - صفت) (۱) نالائق - ناکارہ - (۲) بے فائدہ۔

ہیج کس - (ف - صفت) ناکارہ و ناقص آدمی۔
 ہیج مہال - (ف - صفت) (۱) بے علم - نادان - ناواقف کچھ نہ جانتے والا - ناچیز۔
 ہیج مہانی - (ف - ا - مٹ) بے علمی - نادانی - بے ہنری۔
 ہیج میرز - (ف - صفت) بے قیمت - ناچیز۔
 ہیج و پوچ - (ف - صفت) (۱) بے ہنر - (۲) لغو - ہیو وہ - فنون - نکما - ناکارہ - (۳) گھٹیا - ناقص - بہت معمولی۔
 ہیڈ - (Head) (انگ - ا - مذ) [۱] سر - (۲) سرگروہ - سروار - پیشوا - (۳) صدر۔
 ہیڈ آفس - (Head Office) (انگ - ا - مذ) صدر دفتر۔
 ہیڈ فون - (Headphone) (انگ - ا - مذ) لاسکی یا ٹیلیفون کا سننے کا آلہ جسے دونوں کانوں میں لٹکا دیتے ہیں۔
 ہیڈ کانسٹیبل - (Head Constable) (انگ - ا - مذ) سپاہیوں کا افسر۔
 ہیڈ کلرک - (Head Clerk) (انگ - ا - مذ) میرٹھی صدر محرر - کلرکوں کا افسر۔
 ہیڈ کوارٹر - (Headquarter) (انگ - ا - مذ) (۱) صدر مقام - (۲) فوجی مرکز - سپہ سالار کی فرود گاہ۔
 ہیڈ ماسٹر - (Head Master) (انگ - ا - مذ) صدر مدرس - مدرس اعلیٰ۔
 ہیڈ ماسٹر - (انگ - ا - مٹ) [دیکھیے ہیڈ ماسٹر جس کی یہ تائینٹ ہے۔
 ہیڈ را - (ہیڈ - را) (۱ - ۱۰ مذ) حال - درجہ سہارت۔
 ہیمر - (۱ - ۱۰ مونٹ) (۱) خلاصہ جوہر - سکنت - مغز (۲) لاجھاکی معشوقہ کا نام - (۳) جڑ - اصل - (۴) طاقت - زور (۵) [صفت] صاف - شفاف - خالص۔
 ہیمر - (ہی - را) (۱ - ۱۰ مذ) (۱) الماس - ایک بیش قیمت سخت پتھر - (۲) [کنایت] عمدہ - نفیس - کھرا - نہایت شریف۔
 ہیمر آدمی - (۱ - مذ) سچا آدمی - کھرا آدمی۔
 ہیمر کھانا - (۱ - محاورہ) خود کشی کی نیت سے الماس کھانا - (کنایت) رشک سے جان و بنا۔
 ہیمر امن - (۱ - ۱۰ مذ) طوطا - مہچو۔
 ہیمر ہینک - (۱ - ۱۰ مذ) عمدہ قسم کی ہینک۔
 ہیمرے کی پرکھ جوہری جانے - (۱) [مٹ] اہل ہنر کو قدر دان ہی پہچانتا ہے۔
 ہیمرے کی کٹی کھانا - (۱ - محاورہ) (۱) ریزہ الماس کھانا - (۲) [کنایت] خود کشی کرنا۔
 ہیمر بھیری - (سہ - لا - ہی - ری) (۱ - ۱۰ مٹ) کسی سوڈے کو لانا اور پھر پھیرنے کو جانا - بار بار آنا جانا - (۲) ہیج ہیج - مکر و فریب۔

(۲) ڈھیر-توہ-انبار۔ (۳) لوتھڑا-مصغہ-بیڈول جسم۔ (۴) ڈول ٹھانچ
-خاکہ۔ (۵) صفت [ناشا آستہ-عینر منڈپ۔ (۶) لاغر-اضعیف۔ (۷)
شکلون مزاج۔
ہیبیولا لائے اول۔ (رع۔ ۱۔ مذ) جوہر اول عقل اول حضرت جبریل علیہ السلام
ہیبیومی۔ (Heavy) (سہے۔ وی) [انگ۔ صفت] مہاری۔ جوہل
وزنی۔ گراں۔
ہیبیومی ویٹ۔ (Heavy Weight) (لنگا باز سپروان جس کا وزن
دو گن سے زیادہ ہو۔
ہیبیناٹ۔ (سہے۔ بات) [رع۔ ۱۔ مذ] افسوں کا کلمہ۔ (۲) افسوس۔
بلئے ہائے۔
ہیبیناٹ ہیبیناٹ۔ (رع۔ کلرے تاسف) (۱) غضب ہوا۔ افسوس افسوس
سہے ہے۔ (۲) جیف۔ صدحیف۔ وائے۔ دریغ۔ (۳) رونے پینے
کی آواز۔ ہائے ہائے۔ واویلا۔
ہیبی ہی۔ (ربی۔ ہی) (۵۔ ۱۔ مٹ) [مینے کی آواز۔ کھل کھل۔
ہیبی ہی ٹھی ٹھی۔ (۵۔ ۱۔ مٹ) ہیبوہ ہیبی۔
ہیبینٹ۔ (سہے۔ آٹ) [رع۔ ۱۔ مٹ] وہ علاج میں اجرام فلکی۔ زمین
کی گردش اور شش وغیرہ سے بحث کی جاتی ہے۔ (۲) بناوٹ۔ سلت۔
(۳) صورت فیکل۔ (۴) حالت کیفیت۔ طور۔ طریق۔
ہیبینت اصلی۔ (۱۔ محاورہ) حقیقی شکل۔
ہیبینت بدلنا۔ (۱۔ محاورہ) شکل بدلنا۔
ہیبینت پکڑنا۔ (۱۔ محاورہ) صورت اختیار کرنا۔
ہیبینت دان۔ (رع۔ ف۔ صفت) علم ہیبینت جاننے والا۔ نجومی۔
ہیبینت کنزانی۔ (رع۔ ف۔ ۱۔ مٹ) موجودہ حالت جسمی کے حالت
ہیبینت مجموعی۔ (رع۔ ۱۔ مٹ) مجموعی حالت۔ عام حالت۔
ہیبیناٹ۔ (رع۔ صفت) جمع ہیبینت صورت فیکل۔ اجرام فلکی کا کلمہ۔
ہیبینے کا اندھا۔ (۱۔ صفت) کور باطن۔ عاقبت نااندیش۔ بے وقوف۔
اجتی۔
ہیبینے کی پھوٹنا۔ (۱۔ محاورہ) بے وقوف ہونا۔ مورکھ ہونا۔

ناقص۔ ناقص۔ ادھورا۔ (۳) کھوٹا۔ (۴) خالی۔ مٹی۔ (۵) مسوخ۔ باطل۔
(۶) پر۔ ٹرا۔ جلیٹا۔ ہیبی۔ (۷) خراب۔ نکمیا۔
ہیبینا۔ (ہیبین۔ نا) [۱۔ ۵۔ مٹ] کی کیفیت۔ گھٹت۔ کوٹی۔
ہیبینڈ۔ (Hand) [انگ۔ ۱۔ مذ] ہاتھ دست۔
ہیبینڈ تراپ (Hands Up) ہاتھ اٹھاؤ۔ (اور بے حس حرکت
کھڑے رہو۔)
ہیبینڈ بک (Hand Book) [انگ۔ ۱۔ مذ] دستی بک۔ ریل۔
(۲) دستور العمل۔
ہیبینڈ بل۔ (Hand Bill) [انگ۔ ۱۔ مذ] چھوٹے چھوٹے
اشتراک ہاتھ سے بانٹے جائیں۔ دستی اشتراک۔
ہیبینڈ بگ۔ (Hand Bag) [انگ۔ ۱۔ مذ] دستی بگ۔
چھوٹا بگس۔
ہیبینڈل (Handle) (ہین۔ ڈل) [انگ۔ ۱۔ مذ] دستہ۔
موٹھ۔ قبضہ۔
ہیبیننا۔ (ہیبین۔ نا) [۱۔ مص]۔ گھوڑے کا ہیننا۔ گدھے کا رینگنا۔
ہیبینگ۔ (۱۔ ۵۔ مٹ) ایک درخت کا بادلو دار گوند جو اکثر امراض
میں کام آتا ہے۔
ہیبینگ آئی تو باٹ لگانی۔ (۱۔ مٹ) موقع کھویا۔
ہیبینگ لگا کر رکھو۔ (۱۔ مٹ) (طنز) ہوانہ لگنے دو۔ بچا کر رکھو۔
ہیبینگ لگانا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) کسی چیز کو ہیبینگ لگانا۔ (۲) رک دینا۔
بڑانا۔ بچا دکھانا۔ ذلیل کرنا۔ (۳) سٹو آنا۔ بنانا۔
ہیبینگ لگانا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) پیش کے مرض میں مبتلا ہونا۔ (۲) بیمار
پڑا رہنا۔ (۳) نہایت کمزور اور ناتواں ہونا۔
ہیبینگا۔ (ہین۔ گا) [۱۔ ۵۔ مذ] کیفیت میں پھیرنے کا پٹا۔ سہاگہ۔
ہیبینگ۔ (Hanger) [انگ۔ ۱۔ مذ] کپڑے وغیرہ لگانے کی کھوٹی۔
(۲) ہوائی جہازوں کا بیڈ۔
ہیبیو۔ (ہی۔ او) [۱۔ ۵۔ مٹ] گائے وغیرہ بکاسنے کی آواز۔
ہیبیولا۔ ہیبیولی۔ (۵۔ یو۔ لا) [رع۔ ۱۔ مذ] (۱) ہر چیز کا مادہ۔ ماہیت۔ اصل۔

ی

یا۔ یے [ع] اردو کا پینتیبیواں۔ فارسی کا تیبیواں۔ عربی کا اٹھائیسواں اور ہندی کا چھبیسواں حرف۔ حساب ابجد میں اس کے دس عدد فرض کیے گئے ہیں۔ می دو قسم کی ہوتی ہے۔ ایک یائے معروف دوسری یائے مجهول۔ یائے معروف وہ می ہے جس سے پہلے کے حرف پر زیر ہوا اور جسے خوب ظاہر کر کے پڑھا جائے۔ جیسے عید۔ فقیر۔ امیر۔ یائے مجهول وہ می ہے جس سے پہلے کے حرف کی زیر خاص نہ ہو اور جسے خوب ظاہر کر کے نہ پڑھا جائے۔ مثلاً دلیر۔ سیر۔ ویر۔ یائے لین وہ می جس سے پہلے حرف پر فتح ہو۔ آواز کو نرم اور تر جھار کے پڑھا جائے۔ جیسے سیر۔ یائے معروف کی متعدد قسمیں ہیں مثلاً (۱) یائے نسبتی جیسے پاکستانی۔ طلالی۔ بخاری۔ شرمی۔ موسوی۔ بنگالی۔ خانگی۔ ربانی۔ جنفی۔ مدنی وغیرہ۔ (۲) یائے خطاب جیسے شفقتی۔ بکرمی۔ (۳) یائے مصدری جو اسم صفت کے بعد آتی ہے جیسے دانائی۔ چوڑائی۔ بزرگی۔ (۴) یائے لیاقت جو مصدر کے آخر میں آکر صلاحیت کا اظہار کرتی ہے جیسے شستی۔ دیدنی۔ خوردنی۔ (۵) یائے متکلم جیسے الہی۔ قیدہ گاہی (۶) یائے فاعلی جیسے کسی۔ شہزادی۔ بخکاری۔ (۷) یائے مفعولی جیسے تحریری۔ بعلتی۔ (۸) اردو میں یائے معروف لاحقہ تائید بھی کہتے ہیں جیسے لڑکا سے لڑکی۔ عربی تقسیم کے مطابق یہ تفریق حرف بنا۔ اس سے پہلے اکرال آئے تو لام اپنی آواز دے گا جیسے "ایوم"۔

ی - ۱

نیک آدمی کو کامیابی دے۔
یا خدا تو دے نہ میں دوں۔ (۱۔ مثل) نہایت نیکل نہ خود دیتا ہے
اور نہ خدا کا دنیا گوارا کرتا ہے۔

یارب۔ (۱۔ دعا) اے پروردگار۔ اے اللہ۔
یا سکھ نیتہ سو ویا مالاجچو۔ (۲۔ مثل) ایک وقت میں ایک کام
ہونا چاہیے۔ ایک وقت میں دو کام نہیں ہو سکتے۔
یا مساکر میں کرم پر دھان۔ (۳۔ مثل) دنیا میں قسمت سب سے
زبردست ہے۔

یا سوئے جوگی ابدھوت یا سووے راجہ کا کُوت۔ (۱۔ مثل) امیر
کا بیٹا اور فقیر دونوں بے فکر ہوتے ہیں اس لئے سکھ کی نیت نہ
سوتے ہیں۔

یا سلین۔ لیٹین۔ لیس۔ (۱۔ مع۔ مذ۔ مٹ) یا سید۔ سید البشر۔ (۲)
قرآن شریف کی ایک سورت جو زرع کے وقت مرنے والے کو
سنائی جاتی ہے۔

یا سلین سنانا۔ (۱۔ محاورہ) مرنے والے کے سر ہانے سورت سلین پڑھنا۔
یا علی۔ (۱۔ کلمہ نما) اہل بیع مشکل کے وقت طلب امداد کیلئے کہتے ہیں۔
یا قسمت یا نصیب۔ (۱۔ کلمہ حیرت) حسرت اور افسوس کے موقع
پر کہتے ہیں۔ بدقسمتی۔ بدقسمتی کا کلمہ کرنے کے لیے کہتے ہیں۔ قسمت
آزمائی کے موقع پر بھی کہتے ہیں۔

یا کرے او پاس یا کھاوے ماس۔ (۱۔ مثل) زکام میں نافع کرنا
چاہتے یا گوشت کھانا چاہتے۔

یا کرے دردمند یا کرے غرضمند۔ (۱۔ مثل) یا تو وہ کرتا ہے جس
کو کوئی غرض ہوتی ہے یا کوئی درد دل رکھنے والا۔

یا کسی کو کر رہے یا کسی کا ہو رہے۔ (۱۔ مثل) یا کسی کو دوست بنا
لے یا کسی کا دوست بن جا۔ لوگوں سے الگ شخصت نہیں رہنا چاہتے۔

یا۔ [ع۔ ح۔ حرف نما یا حرف مناجات] اے۔ اہی۔ ارے۔
یا دف۔ حرف تروید یا حرف عطف [خواہ۔ چاہو تو۔ دو خوروں کو
جمع ہونے سے روکنے یا دو میں سے ایک کو مخصوص کرنے کا کلمہ۔
جیسے زہد اچھا ہے یا بُدا۔ یہ تو یادہ۔

یا اللہ۔ یا الہی۔ (۱۔ روزمرہ) اے خدایا۔ اے خدا یا۔ دعا مانگنے یا
حیرت اور حجب کے اظہار کا کلمہ۔

یا باں شور و شر (شور و شور) یا باں بے زلمی۔ (۱۔ مثل) یا تو
اتنا اخلص تھا یا اب اس قدر بے اقتنائی۔

یا بے گوجرہ یا رے او جہرہ۔ (۱۔ مثل) یا تو اس میں گوجرہ نوم آباد
ہوگی یا ویران رہے گا۔ خود غرضی کی مثال کہ اگر کسی چیز سے خود فائدہ نہ
اٹھائے تو وہ مردوں کو بھی مستفید نہ ہونے دے۔

یا جینسا جینسوں میں یا قصائی کے کھونٹے پر۔ (۱۔ مثل)۔ یا
کامیاب ہوگے یا جان بھی۔ تخت یا تختہ۔ (۱۔ مثل) مناسب کام کرنا
یا بھرا تک سیندور یا نیت ہو راند۔ (۱۔ مثل) مناسب کام کرنا
چاہئے نامناسب نہیں۔

یا پر۔ (۱۔ تابع فعل) اس پر۔
یا تخت یا تختہ۔ (۱۔ مثل) کامیاب ہوں گا یا جان دے دیں گے
یا تن رسد جانماں یا جان ترن برآید۔ (۱۔ مثل) حصولی مقصد
کے لیے جان توڑ کوشش کرنا۔

یا تو ہنسنا موتی بھگے یا لنگن ہی کر جائے۔ (۱۔ مثل) شریف آدمی
اگر کھائے گا تو غوث کی روٹی کھائے گا ورنہ بھوکا رہے گا۔

یا جائے ہزاری یا جائے بازار می۔ (۱۔ مثل) میلوں بھیلوں میں
امیر لوگ جاتے ہیں یا بازاری لوگ۔
یا خدا خیر کر، خیر کا بیڑا پار کر۔ (۱۔ دعا) اے خدا مہربانی کر اور

یا در کھنا۔ (۱- محاورہ) خیال رکھنا۔ دھیان رکھنا۔ بھول نہ جانا۔
یا در کھوا اس بات کو جو سے تم میں کچھ گیان۔ سائیں جاگو ہو گیا
وا کا نگر جہان۔ (۱- مثل) جس طرف خدا ہے سارا جہاں اس کی طرف
ہوتا ہے۔

یا در رہنا۔ (۱- محاورہ) حافظے میں رہنا۔ ذہن میں رہنا۔
یا در سے۔ (۱- کلہر تائید) بھول نہ جانا، آگاہ کر دینا ہوں کہ اس کا بدلہ
لے کے رہوں گا۔ (۳) ضروری۔ شرطی۔ یقیناً۔ بے شک۔ دعویٰ سے۔
یا دریں بخیر۔ (د- منقولہ) دعائیہ کلہ۔ اس کی یاد خیر کے ساتھ۔ اس کی
خیر ہو۔

یا در فراموش۔ (۱- امث) (۱) بھول جانے والا ایک کھیل۔ جس میں کسی کو
بھولواں پھل دے کر کہتے ہیں۔ فراموش اگر وہ جواب میں یاد نہ
کئے تو پھر اسے منہ مانگی تعداد میں بطور جرمانہ وہی پھل دینے پڑتے ہیں۔
یا در کرنا۔ (فرمان) (۱) ایس۔ مرکب (۱) بلانا۔ طلب کرنا۔ (۲) حفظ کرنا۔
ذہن نشین کرنا۔ (۳) بار بار نام لینا۔ (۴) بھولی ہوئی چیز کو خیال میں
لانا سوچنا۔

یا در کرو گے۔ (۱- مثل) پچھتاؤ گے۔ ہاتھ ملو گے۔
یا در کرے۔ (۱- منقولہ) کبھی نہ بھولے۔ افسوس کرے، پچھتائے۔
یا در کیا ہے۔ (۱- منقولہ) بھلا یا ہے۔
یا در کار۔ نشانی، آثار۔ علامت۔ پرانی عمارت۔ (۲) اولاد۔ بیٹا (۳)
وہ چیز جو کوئی دوست دوسرے دوست کو بطور نشانی دیتا ہے۔

یا در گزار زمانہ۔ یا در بننے والی چیز۔ عمدہ چیز۔
یا در گد گدانا۔ (۱- محاورہ) کسی کا بار بار یاد آنا۔
یا در لگی ہونا۔ (۱- محاورہ) ہر وقت کسی کا دھیان ہونا۔
یا در میں فرو ہونا۔ (۱- محاورہ) کسی کے خیال میں رہنا۔
یا در میں رہنا۔ (۱- محاورہ) کسی کو اکثر یاد کرنا۔

یا در ہو کہ نہ یاد ہو۔ (۱- منقولہ) معلوم نہیں یا دوسے یا بھول گئے ہو۔
یا در ہونا۔ (۱- محاورہ) حفظ ہونا۔ ازبر ہونا۔ دھیان ہونا۔
یا دوسے۔ (۱- منقولہ) بخوبی معلوم ہے۔ خوب جانتے ہیں (۲) سوالیہ
اندر زمین تم بھول تو نہیں گئے۔

یار۔ (د- ۱- مذکر) دوست۔ مددگار۔ پیارا۔ چہیتا۔ ساتھی۔ رفیق۔ معنوق
محبوب (۲) مرکبات میں جیسے شہریار۔

یار باز۔ (د- صفت) آوارہ۔ بدہن عورت۔
یار باش۔ (د- صفت) (۱) ہمتیار۔ دوست دار۔ یاروں کا یار (۲) زندہ
دل۔ خوش مزاج۔ (۳) عیاش۔ تماش بین۔

یار باشی۔ (د- ۱- امث) دوستی۔
یار بنانا۔ (۱- محاورہ) دوست بنانا۔ اپنے طلب کار لینا۔ ڈھب پر لانا۔

یار جانی۔ (د- صفت) نہایت پیارا۔ دلی دوست۔
یار در خانہ و من گد چنالی می گودم۔ (د- مثل) لڑکا بن میں
ڈھنڈورا شہر میں۔

یا لڑے سورما یا لڑے ان بھول۔ (د- مثل) بہادر یا بے وقوف
آدمی ہی بچھا لڑ سکتا ہے۔

یا للعجب۔ کلہ۔ استعجابیہ۔

یا لیت۔ (د- منقولہ) اسے کاش کہ۔ سرگم۔ (۱- مثل) شراکت
یا مارے ساجھے کا کام یا مارے بھادوں کی گھام۔ (۱- مثل) شراکت
کا کاروبار اور بھادوں کی گزری دونوں ہی نقصان دیتے ہیں۔

یا مکن یا پیل باناں دوستی یا بنا کر کن خانہ درخور پیل۔ (د- مثل)
یا اپنی حیثیت سے بڑھ کر کام نہ کرو یا اس کے لیے سامان مہیا کرو۔

یا میرے اللہ۔ (کلہر جیت و نجب) حیرت۔ تعجب یا تکلیف کے
مترک پر کہتے ہیں جو کوئی بے شکئی بات کہے یا بے شکا کام کہے تو بھی
کہا جاتا ہے۔

یا وحشت۔ طنز یا تمسخر کا کلہ۔
یا بھو۔ (۱- مذ) (۱) ایسے اللہ۔ (۲) کمزور کی ایک قسم ہے۔

یا ب۔ (د- لائقہ) یافتن کا امر۔ پانا۔ اسم کے آخر میں اگر فعل کے معنی
دیتا ہے جیسے کامیاب۔ فیض یا ب۔

یا بس۔ (د- صفت) خشک۔ پستی کرنے والا۔ سوکھا ہوا۔
یا بندہ۔ (یا۔ بن۔ وہ) (د- صفت) اپنے والا۔ حاصل کرنے والا۔

یا بول۔ (د- ۱- مذ) ٹٹو۔ چھوٹا گھوڑا۔
یا پانی۔ (د- پانا۔ مرکبات میں مصدوری معنی دیتا ہے۔ جیسے کیابی۔

یا ترا۔ (بات۔ را) (د- ۱- امث) اجازت۔ مذہبی سفر۔ مقدس مقامات
کی زیارت۔

یا تری۔ (د- صفت) مذہبی سفر کرنے والا۔ زائر۔
یا بوج ماجوج۔ (د- ۱- مذ) دو مسند تو ہیں جن کا ذکر قرآن اور انجیل
میں آیا ہے جو قرب قیامت میں خروج کریں گے۔ (۲) مسند اور
چھوٹا لوگ۔ فتنہ پرداز۔

یا و۔ (د- ۱- امث) محافظ۔ ذہن۔ خیال۔ (۲) تبسح۔ (۳) یادداشت۔
یا و آنا یا در پڑنا۔ یا و ہونا۔ (۱- محاورہ) خیال میں آنا۔ ذہن میں آنا۔
ذہن نشین ہونا۔ معلوم ہونا۔ ازبر ہونا۔ حفظ ہونا۔

یا و آوری۔ (۱- محاورہ) یاد کرنا۔ مزاج پر سی کرنا۔
یا و اللہ۔ (۱- امث) رسمی ملاقات۔ شناسائی۔ صاحب سلامت و تقویت۔
یا و ایام۔ یاد آیا مہیکہ۔ (۱- د- ۱- ع- ف) گزرے ہوئے دنوں کی یاد۔
یا و بلی بھگوان کی اور بھلی نہ کو۔ لاجا کی کر چاکری جو پر جاتا ہے جو۔
دہ۔ مثل) خدا کی یاد سے بہتر ہے جو راجہ کی نوکری کرتا ہے،
سب اس کی نابعاری کرتے ہیں۔

یا و داشت۔ (۱- امث) (۱) یاد رکھنے کی صلاحیت۔ حافظہ۔ (۲) روزنامہ۔
ڈائری۔ (۳) دوسرا تائید ہی خط۔ یاد دہانی۔

یا و دلانا۔ (۱- محاورہ) آگاہ کرنا۔ جتانا۔ بھولی ہوئی بات کو کسی کے
ذہن میں ڈالنا۔

یا و دہانی۔ (۱- امث) کسی بات کی تائید کے لیے دوبارہ کہنا یا لکھنا۔

یار زندہ صحبت باقی - (۱- مثل) اب نہیں تو پھر سہی - زندگی ہے تو ملاقات ہوگی۔

یار شاط - (فت ۱- مذ) ۱) چالاک دوست - عقلمند دوست (۲) شرطیج کا ساتھی۔

یار شاطر باید نہ بار خاطر - (فت ۱- مثل) دوست ہوشیار ہونا چاہئے نہ کہ دل کا بوجھ۔

یار عزیز - (فت ۱- صفت) پیارا دوست۔

یار غار - (فت ۱- مذ) غار کا دوست - سچا دوست - گمراہ دوست - پتکا دوست - حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ ہے جو تین دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ غار ثور میں رہے۔

یار فروشی - (فت ۱- مثن) جھوٹی تقریب - خوشامد۔

یار کرنا - (۱- محاورہ) دوست بنانا - آشنائی کرنا۔

یار کو کرول پیار - جسم کو کرول جسم، لڑکے کو کرول چٹنی۔

(۱- مثل) بزمین عورت کے متعلق کہتے ہیں۔

یار کی یاری سے کام اس کے فعلوں سے کیا کام - (۱- مثل) دوست کی دوستی سے غرض ہے اس کے فعلوں سے کیا تعلق۔

یار لوگ - (۱- مذ) ۱) چالاک دوست (۲) دوست آشنا - (۳) ہم لوگ۔

یار مار - (۱- صفت) دوست سے دغا کرنے والا۔

یار مار بائیا، پیمان مار چور - (۱- مثل) بنیا دوست کو بھی دھوکہ دینے سے نہیں چوکتا۔ اور چور مال دار جان کر ٹوکتا ہے۔

یار ماری - (۱- مثن) دوست کے ساتھ دغا بازی۔

یار ماری کرنا - (۱- محاورہ) دوست بن کر دغا دینا۔

یار وفا دار - (فت ۱- صفت) سچا دوست۔

یار وہی جو بیٹھ میں کام آئے - (۱- مقولہ) دوست وہی ہے جو کم مصیبت میں کام آئے۔

یارا - (فت ۱- مذ) قوت - توانائی جو صلہ طاقت - مفذور۔

یاراں - (یا- راں) (فت ۱- مذ) یار کی جمع کئی دوست۔

یاراں چوری نہ پیراں دغا بازی - (۱- مثل) کسی سے دغا نہ کرنا۔ ہر شخص سے یکساں معاملہ صاف رکھنا۔ دوستوں سے کوئی چیز پوشیدہ نہ رکھنی چاہئے۔ اور پیروں سے دھوکا نہ کرنا چاہئے۔

یاران رفتہ - یاران عدم - (فت ۱- مذ) مرے ہوئے لوگ۔ وہ دوست جن کا انتقال ہو چکا ہو۔

یاران سربل - (فت ۱- مذ) بے تکلف دوست۔ آشنائے محفل۔

یاران نجد - (فت ۱- مذ) ہم مشرب دوست۔ بے تکلف دوست۔

گروہ عاشقان۔

یاران طریقت - (فت ۱- مذ) ہم مشرب - یار دوست۔

یارانہ - (یا- را- نہ) (فت ۱- مذ) دوستی - آشنائی - محبت۔

یارانہ ہونا - (۱- محاورہ) دوستی ہونا - میل ملاپ ہونا۔

یارانی - (فت) چارہ - علاج - مدد۔

یار ڈ - (Yard) [انگ ۱- مذ] (۱) صحن - چوک (۲) گز پیارو - (یا- رو) [آر- ۱- مذ] یار کی جمع بحالت نداء - دوستو۔

یاروں کا بار - (۱- صفت) دوستوں کا ساتھی - بڑا یار باش - ہر دل عزیز۔

یاروں کی ہر بات میں شریک ہونے والا۔

یاروں کی تو فقط موچیں ہی موچیں ہیں - (۱- مثل) - ہمارے پاس کچھ نہیں۔

یارہ - (فت ۱- مذ) ۱) کنگن - کلائی - (۲) ایک مہل کی دو - (۳) محصول لگان - (۴) زخم۔

یاری - (یا- ری) (فت ۱- مثن) دوستی - رفاقت - مدد - معاونت۔

یاری جو لٹا - (۱- محاورہ) باہم دوستی کرنا - یارانہ کرنا۔

یاری دینا - (۱- محاورہ) مدد دینا - دستگیری کرنا۔

یاری کر کے مبادوے اور کر کے چھوڑیں کوٹھ - یا توڑ نیما سے یا رہیں اس سے دور - (۱- مثل) دل لگانا پانچل پن ہے۔ گردل لگا کر چھوڑ دینا حماقت ہے۔ یا دوستی کر کے نہا ہنی چاہئے۔ ورنہ اس کے قریب ہی نہ جانا چاہئے۔

یاری کٹ (کھٹ) کرنا - (۱- محاورہ) بچوں کا ایک دوسرے سے دوستی قطع کرنا۔

یاروہ - (ریازہ ذہ) (فت ۱- صفت) گیارہ - دس اور ایک۔

یاروہم - (ریازہ ذہ) (فت ۱- صفت) گیارہواں۔

یاروہ - (ریازہ ذہ) (فت ۱- مذ) ۱) لڑوہ - (۲) جمالی - (۳) انگڑائی۔

یاس - (یع ۱- مثن) ۱) ناامیدی - مراث - مایوسی - (۲) خوف - دھڑکا۔

یاس کلی - کامل ناامیدی۔

یاس ہو جانا - یاس تہ جانا - (۱- محاورہ) ناامید ہو جانا - ہمت ٹوٹ جانا۔

یاسا - (ت ۱- مذ) ماتم قتل - قانون بنگلوں کے قانون کی کتاب۔

یاسمن - یاسمین - (فت ۱- مثن) ۱) چنبیلی پھول - چنبیلی کا درخت۔

یاسیت - (ع ۱- مذ) مایوس ہونے کی کیفیت۔

یافت - (فت ۱- مثن) ۱) آمدنی - کمائی - نفع - (۲) بالائی آمدنی۔

یافتی - (یافت - ت) (فت ۱- مثن) پانے کے لائق قابل وصول۔

یافتہ - (یافت - تہ) (فت ۱- صفت) پایا ہوا - حاصل کیا ہوا۔

یاقوت - (یا- قوٹ) (ع ۱- مذ) ۱) لعل - ایک قیمتی پتھر جو سرخ - نیلا - زرد یا سفید ہوتا ہے - (۲) سرخ رنگ کا پلاؤ۔

یاقوت احمر - (ع ۱- مذ) سرخ یاقوت۔

یاقوت جگری - (ع ۱- مذ) گہرا سرخ یاقوت۔

یاقوت زئی - (ع ۱- مذ) انار کے ہرنگ یاقوت۔

یاقوت لب - (فت ۱- صفت) جس کے ہونٹ یاقوت کے رنگ کے ہوں۔

ی۔ ث

یخیزت - (دیشہ۔ رت) [ع۔ ا۔ مذ] مزید منورہ کا قدیم نام۔ (لفظی معنی) خارنار۔ ویرانہ۔

ی۔ ج

یوچر وید - (ی۔ جڑ۔ وید) [ع۔ مذ] ویدوں کے چاروں ویدوں میں سے دوسرا وید جس میں قربانی کے رسوم و آداب صج ہیں۔

ی۔ ح

یوچینی - (یخ۔ یا) [ع۔ ا۔ مذ] لغوی معنی جینسا ہے۔ ایک نیمبر کا نام ہے۔

ی۔ ح

یوچ - (ع۔ ا۔ مذ) [ع۔ ا۔ مذ] برت جما ہوا پالا۔ بہت ٹھنڈا۔
 یوچ بستہ - (ع۔ صفت) سردی سے برت کی طرح جما ہوا۔
 یوچنی - (ع۔ رتی) [ع۔ ا۔ مذ] شوربا۔ ابلے ہوئے گوشت کا پانی۔
 یوچنی پلاؤ - وہ پلاؤ جس میں یوچنی ڈالے ہیں۔

ی۔ د

یڈ - (ع۔ ا۔ مذ) ہاتھ۔ مدد۔ حفاظت۔ طاقنت۔
 یڈ اللہ - (ع۔ ا۔ مذ) خدا کا ہاتھ۔ کنایت حضرت علی کرم اللہ وجہہ۔
 یڈ بھینا - (ع۔ ا۔ مذ) روشن اور چمکدار ہاتھ۔ سفید ہاتھ (۲) حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ نما ہاتھ۔ (۳) معجزہ خرق عبادت۔
 یڈ سفلی - (ع۔ ا۔ صفت) چمکا ہاتھ۔ شکنے والا ہاتھ۔ درت سوال۔
 یڈ طولی - (ع۔ ا۔ مذ) بڑا لمبا ہاتھ (۲) مہارت کمال۔ اچھی درتیں۔ کمال ہنرمندی۔
 یڈ طولی رکھنا - (ع۔ ا۔ محاورہ) بڑی مہارت رکھنا۔ زبردست حکم ہونا۔ کسی کام میں کمال رکھنا۔
 یڈ چلیا - (ع۔ ا۔ صفت) اُوپر کا ہاتھ بخشش کرنے والا ہاتھ۔
 یڈ قدرت - (ع۔ ا۔ مذ) خدا کی قدرت۔
 یڈھ - [ع۔ ا۔ صفت] لڑائی۔ جنگ۔
 یڈھان - (ع۔ ا۔ صفت) سُورما۔ لسنے والا سپاہی۔ سُورما۔
 یڈنی - (ع۔ ا۔ صفت) [ع۔ ا۔ صفت] لڑائی۔ جنگ۔
 یڈنے - (ع۔ ا۔ صفت) لڑائی۔ جنگ۔

یاقوتی - (ع۔ ا۔ مذ) [ع۔ ا۔ مذ] ایک معجون (۳)
 ایک مٹھائی (Yak) [ع۔ ا۔ مذ] تبت کا ایک سیل جس کے بال لمبے اور پیٹھ پر کھان ہوتا ہے۔

یال - (ع۔ ا۔ صفت) [ع۔ ا۔ مذ] جانوروں کی گردن کے بڑے بڑے بال۔ یا بال (۲) گردن۔ گلا۔

یال - (ع۔ ا۔ صفت) [ع۔ ا۔ مذ] یہاں کا صفت۔ اس جگہ۔
 یالنا - (ع۔ صفت) [ع۔ ا۔ مذ] چھوٹی ٹمگ کا۔
 یالچی - (E. Yankee) [ع۔ ا۔ مذ] امریکی۔ امریکہ کا باشندہ۔

یاور (ع۔ ا۔ مذ) [ع۔ ا۔ مذ] مددگار۔ حمایت۔ دست گیر۔
 یاور ی - (ع۔ ا۔ صفت) [ع۔ ا۔ مذ] مدد۔ دستگیری۔ حمایت۔ سہارا۔ امانت۔

یاورہ - (ع۔ ا۔ صفت) [ع۔ ا۔ مذ] بے ہودہ۔ لغو۔ ناممقول۔ فضول۔ بے معنی۔
 یاورہ پوچ - (ع۔ ا۔ صفت) [ع۔ ا۔ مذ] بے ہودہ۔ لغو۔ ناممقول۔ فضول۔ بے معنی۔

یاورہ کوئی - (ع۔ ا۔ صفت) [ع۔ ا۔ مذ] بیہودہ ہائیں کرنا۔ بکواس۔
 یاورہ کوئی - (ع۔ ا۔ صفت) [ع۔ ا۔ مذ] بیہودہ ہائیں کرنا۔ بکواس۔
 یاورہ کوئی - (ع۔ ا۔ صفت) [ع۔ ا۔ مذ] بیہودہ ہائیں کرنا۔ بکواس۔
 یاورہ کوئی - (ع۔ ا۔ صفت) [ع۔ ا۔ مذ] بیہودہ ہائیں کرنا۔ بکواس۔

ی۔ ب

یہن - (ع۔ ا۔ مذ) [ع۔ ا۔ مذ] سوکھاپاں۔
 یہن سرت - (ع۔ ا۔ صفت) [ع۔ ا۔ مذ] سوکھاپاں۔

ی۔ ت

یتا - (ع۔ ا۔ صفت) [ع۔ ا۔ مذ] اتنا۔
 یتامی - (ع۔ ا۔ صفت) [ع۔ ا۔ مذ] اتنا۔
 یتن - (ع۔ ا۔ صفت) [ع۔ ا۔ مذ] اتنا۔
 یتنی - (ع۔ ا۔ صفت) [ع۔ ا۔ مذ] اتنا۔
 یتیم - (ع۔ ا۔ صفت) [ع۔ ا۔ مذ] اتنا۔
 یتیم - (ع۔ ا۔ صفت) [ع۔ ا۔ مذ] اتنا۔
 یتیم - (ع۔ ا۔ صفت) [ع۔ ا۔ مذ] اتنا۔
 یتیم - (ع۔ ا۔ صفت) [ع۔ ا۔ مذ] اتنا۔

یہرین۔ (دی۔ وین) [ع۔ ۱۔ مذ] دونوں ہاتھ۔

ی۔ ر

یراق۔ (دی۔ لاق) [ت۔ ۱۔ مذ] (۱) لڑائی کا سامان بہتیار۔ (۲) اسباب سامان۔

یرغنا۔ (یر۔ غا) [ت۔ ۱۔ مذ] (۱) تیز رفتار گھوڑا۔ (۲) پیغار۔
یرغمال۔ (یر۔ غ۔ مال) [ت۔ ۱۔ مذ] کھیل۔ وہ فرد یا افراد جو شرانط کی پابندی کی ضمانت میں دشمن کے حوالے کیے جاتے ہیں۔

یرقان۔ (یر۔ قان) [ع۔ ۱۔ مذ] ایک مرض جس میں آنکھیں اور چہرہ زرد ہو جاتا ہے۔ عربی میں ترکی لیر ہے فارسی والوں کے سکون ل سے استعمال کیا ہے۔

یرقانی۔ (یر۔ قانی) [ع۔ ۱۔ مذ] (۱) یرقان کا مرض۔ (۲) لرد۔

یرمعان۔ (یر۔ م۔ عمان) [ع۔ ۱۔ مذ] تھک۔ بدیدہ۔ ارمغان۔

یرمیاہ۔ (یر۔ م۔ یاہ) [ع۔ ۱۔ مذ] لغوی معنی، خدا نے سرفراز کیا۔

یرشلیم۔ فلسطین کا دارالسلطنت۔ ایک بہت پرانا شہر حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کا دارالسلطنت۔ (۲) بیت المقدس۔

ی۔ ز

یزد۔ (ت۔ ۱۔ مذ) خدا تعالیٰ (۲) ایران کے مشرق میں ایک شہر۔

یزدان۔ (یز۔ دان) [ت۔ ۱۔ مذ] خدائی اور خیر کا خالق۔

یزداں پرست۔ (ت۔ ۱۔ مذ) خدا پرست۔ آتش پرست۔ پاسبی۔

یزدی۔ (ت۔ ۱۔ مذ) شہر یزد کا رہنے والا۔ یزد کی بنی ہوئی شے۔ ایران کے شہر یزدت منسوب۔

یزید۔ (ی۔ زید) [ع۔ ۱۔ مذ] (۱) امیر معاویہ کے بیٹے کا نام جس کے عہد میں سائیکر لایا ہوا۔ (۲) سنگ دل۔ ظالم۔ (۳) دولت میں بڑھنے والا۔

یزیدی۔ (ع۔ ۱۔ مذ) کردوں کا ایک فرقہ جس کے اصول مختلف مذہبوں سے لیے گئے ہیں۔

یزیدیت۔ (ع۔ ۱۔ مذ) (۱) سفاکی۔ بے رحمی۔

ی۔ س

یسل۔ (ع۔ ۱۔ مؤنث) دیکھیے یا سین۔

یسار۔ (دی۔ سار) [ع۔ ۱۔ مذ] (۱) بایاں ہاتھ۔ بایں جانب (۲) دولتمندی فراوانی (۳) بد قسمت۔ (ت۔ ۱۔ مذ) (۱) بایاں ہاتھ۔ بایں جانب (۲) دولتمندی۔

یسارت۔ (دی۔ سارت) [ع۔ ۱۔ مذ] (۱) دولت مند۔ (ت۔ ۱۔ مذ) (۱) بایاں ہاتھ۔ بایں جانب (۲) دولتمندی۔

یسارویا۔ (ع۔ ۱۔ مذ) بایاں اور وایاں۔

یسال۔ (ی۔ سال) [ت۔ ۱۔ مذ] فوج کا پہلا۔
یساول۔ (ی۔ سا۔ ول) [ت۔ ۱۔ مذ] نقیب۔ چوہدار۔ ہرکارہ۔ قاصد۔
پرویس کا شیبیل۔

یسیر۔ (ع۔ ۱۔ مذ) [ت۔ ۱۔ مذ] آسانی۔ خوشحالی۔ دولت مندی۔ خوشگوری۔

یسوع۔ (عبرانی۔ ۱۔ مذ) حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔

یسیر۔ (ی۔ یسر) [ع۔ ۱۔ مذ] (۱) آسان۔ سہل۔ (۲) غصہ اور قلیل چھوٹا۔

(۳) اردو میں یشیر کے ساتھ اس بچے کے لیے استعمال ہوتا ہے جس کی ماں مرگئی ہو۔ یسر ماں باپ کے۔

ی۔ ش

یشب۔ (ی۔ شب) [ت۔ ۱۔ مذ] ایک قہقہہ سوزی ماں ہوتا ہے۔

ی۔ ع

یعبوب۔ (ع۔ ۱۔ مذ) تیز رفتار گھوڑا۔

یعیسوی۔ (یع۔ یسوی) [ع۔ ۱۔ مذ] شہد کی مکھیلوں کا بادشاہ۔ (ملکہ) قوم کا قائد۔

یعقوب۔ (یع۔ قوب) [ع۔ ۱۔ مذ] (۱) اڑنگا مارنے والا۔ تعاقب کرنے والا۔ (۲) حضرت یوسف کے والد کا نام جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق کے بیٹے تھے۔ ان کو اسرائیل بھی کہا جاتا ہے۔

یعنی۔ (یع۔ نی) [ع۔ ۱۔ مذ] مضارع [۱] مڑا ہوا ہے۔ مطلب یہ ہے (۲) کیونکہ۔ اس لیے کہ۔

یعوقب۔ (ع۔ ۱۔ مذ) قوم نوح اور عربوں کا ایک قبیلہ۔

ی۔ ع

یعمان۔ (یع۔ مان) [ت۔ ۱۔ مذ] کورٹ کا مال۔ مال غیر منت۔

یعمانی۔ (یع۔ ما۔ ای) [ت۔ ۱۔ مذ] لیٹرا۔ فارتگر۔ قزاق۔

ی۔ ف

یفاع۔ (ی۔ فاع) [ع۔ ۱۔ مذ] اُچھی زمین۔ خزانہ بیلہ۔

ی۔ ق

یقظہ۔ (ی۔ ق۔ ظہ) [ع۔ ۱۔ مذ] بیلاری سونے والے کا جاگ اٹھنا۔

یقین۔ (ی۔ قین) [ع۔ ۱۔ مذ] (۱) اکتیار۔ اعتماد۔ بھروسا۔ اطمینان۔ (۲) گمان۔ (۳) بے شبہ۔ بلا شک۔ ضرور۔

یک چہرہ - (دفعہ) متفق - متحد - موافق -
 یک جنبی - (دفعہ) امتداد - اتفاق - دوستی -
 یک چشم - (دفعہ) کاننا - ایک آنکھ والا -
 یک چشمی - (دفعہ) نیک و بد یا ہر کس ذائقہ کو یکساں سمجھنا -
 یک بندہ - (دفعہ) تابع فعل - فراسی - دیر - کھڑے کھڑے - غلطی سے - بعض وقت -
 یک جوہر - (دفعہ) ۱۔ مذہب جو ایک بائس پر کھڑا ہو -
 یک درخیز و محکم گیر - (دفعہ) مثل - ایک ہی جگہ انتقال سے کام کرنا چاہیے -

یک دست - (دفعہ) یکساں - ہموار - (تابع فعل) بالکل -
 یک دستی - (دفعہ) امتداد - ایک ہاتھ کا - (دفعہ) کشتی کا ایک داؤ -
 یک دگر - (دفعہ) ایک دوسرا - دونوں مل کر - باہم دگر -
 یک دل - (دفعہ) یونس - ہرم - ہماز - ہرنگ - ہما زبان -
 یک والا - (دفعہ) متفق - متحد - (۲) شجاع - بہادر -
 یک ولی - (دفعہ) اتفاق - اتحاد -

یک ذات - (دفعہ) ایک ہی ذات کے -
 یک زبان - (دفعہ) عمدہ اور مفید گھوٹا - (۲) وہ گھوٹا جس کا رنگ سرخ اور دم سفید ہو -
 یک رخمی - (دفعہ) دونوں طرف سے ایک ہی شکل کا - ایک طرف

یک رنگ - (دفعہ) (۱) یکساں - اندر باہر سے ایک جیسا (۲) صاف دل - نیک باطن - صادق - مخلص - درست -

یک رنگی - (دفعہ) امتداد - ایک طرح کا ہونا (۲) محبت - دوستی -
 یک رُو - (دفعہ) دوست - صادق - سچا بار -

یک روزہ - (دفعہ) ایک دن کا - ایک دن کے لیے -
 یک روئی - یک جنبی - بے ریا ہونا -

یک زبان - (دفعہ) نہایت قدم - بات کا پکا متفق -
 یک زبان ہونا - (دفعہ) متفق ہونا -

یکسالہ - (دفعہ) ایک سال کا -
 یکسال - (دفعہ) ایک سا - ہموار - مسطح - برابر - (۲) مانند - منسا ہوا - ہر شکل -

یکسانی - یکسانیت - (دفعہ) مشابہت - ایک جیسا ہونا -
 یکسر - (دفعہ) تمام - بالکل - سر سے پاؤں تک - اول سے آخر تک -

یک سر ہزار سووا - (دفعہ) شدید مصروفیت - بہت سے کاموں میں بچھٹا ہونا - فہم داروں کی وجہ سے کمزورتی -

یکسو - (دفعہ) (۱) ایک طرف - ایک جانب (۲) ساکن - ٹھہرا ہوا -
 یک سوئی - (دفعہ) امتداد - اطینان - دلجمعی - فرصت -

یک شنبہ - (دفعہ) ۱۔ مذہب انوار کا دن -
 یک ضربی - (دفعہ) ایک نامی نندوق یا پستول جس میں ایک کارتوس چل سکے - ایک ضرب لگانے والا -

یقین آنا - (۱) محاورہ - اعتبار آنا -
 یقین گزار ہر ہے - (۱) منظور - یقین ہوتو انسان کا مادی حاصل کر لینا ہے -
 یقین جانا - (۱) محاورہ - اعتبار کرنا - سچ جانا - باور کرنا -

یقین جانو - (۱) محاورہ - سچ سمجھو -
 یقین کرنا - (۱) مص - مرکب - اعتبار کرنا - سچ جانا - صحیح مان لینا -

یقین لانا - (۱) محاورہ - باور کرنا - اعتبار کرنا - سچ جانا - تسلیم کرنا - مان لینا -
 یقین مانو - (۱) محاورہ - سچ جانو - درست سمجھو -

یقین نہ کرنا - (۱) محاورہ - اعتبار نہ کرنا - سچ نہ جانا - شبہ کرنا -
 یقین ہونا - (۱) محاورہ - باور ہونا -

یقینا - (ی - بی - زن) [ع - ف - تابع فعل] ضرور - بیشک - بلاشبہ -
 یقینی - (ی - بی - ز) [آر - ا - مرث] یقین کیا ہوا - گمان و شک سے مبرا - بلاشبہ - لازمی - ضروری -

ی - ک

یک - (دفعہ) [دفعہ] ایک - اکیلا - واحد - تنہا -
 یک اسپہ - (دفعہ) ۱۔ مذہب - ایک گھوڑے کا مالک - (۲) سورج -

یک اناور و صد بیمار - (دفعہ) مثل - چہرہ ایک مگر خواہش مند سینکڑوں -
 یک انور و صد زبور - (دفعہ) مثل - کسی چیز کو حاصل کرنے میں سینکڑوں دشواریاں -

یک بار - (دفعہ) ایک دفعہ - ایک بار - ایک مرتبہ -
 یک بارگی - یک بیک - (دفعہ) تابع فعل - دفعہ - یک ایک - پچا -

یک ہام و دو ہوا - (دفعہ) مثل - بے قاعدگی - بے اصولی -
 یک پارہ - (دفعہ) ۱۔ مذہب - ایک ٹکڑا - ایک حصہ (دفعہ) مھوس - پچا -

(۳) متعلق فعل - فوراً - ایک دفعہ -
 یک پشتہ - (دفعہ) ایک طرف چھپا ہوا کاغذ -

یک پیری و صد عیب - (دفعہ) مثل - بڑھاپا سو بیماریوں کے برابر ہے -
 یک تارا - (دفعہ) ۱۔ مذہب - ایک تار کا تار - اکتارا - (۲) مرث - ایک قسم کی ایک محل -

یکسانی - (دفعہ) امتداد - اکیلا ہونا - بے نظیر ہونا -
 یکے تلے زمانہ (عصر) بے مثل - لا جواب -

یک تہی - (دفعہ) مرث - اکرا کپڑا - جو دوہرا نہ ہو -
 یک جا - (دفعہ) ایک جگہ - اٹھنے - ملے جلے -

یک جان - (دفعہ) ایک دل - خوب ملے ہوئے -
 یک جان و دو قالب - (۱) مثل - نہایت گہرے دوست - چکتے دوست -

یک جان و دو قالب ہونا - (۱) محاورہ - نہایت گہرے دوست ہونا -
 یکے پار ہونا -

یک جہتی - (دفعہ) ایک دادا کی اولاد - اجدادی موروثی -

پیکل - (ق) [اکیلا -
پیکنگ - (ق) - ۱۔ مذا [ایک سافٹ - ہم صحبت۔
پیکنگ - (ق) - ۱۔ مرث [کشتی کی ایک قسم۔
پیکر - (یک) - کا [ہ - ۱۔ مذا [ایک کھڑے کی رنگہ نا گاڑی۔
پیکر تاز - پیکتاز - (صفت) بہادر۔ سورا۔ وہ جو تنہا حریف پر
 حملہ کرے۔

پیکے - (صفت) ایک - ایک کو - ایک تو - کوئی ایک۔
 پیکے بعد دیگرے۔ (صفت) تابع فعل، ایک دوسرے کے بعد۔
 پیکے لاکھ دو پیڑے رادھوئی کن۔ (صفت) جس جو ملتا ہے وہ تو
 لے لوار پتھا کا چھوٹا بعد میں اٹھانا۔
 پیکے نقصان مایہ و دیگرے شمشات ہمسایہ۔ (صفت) مثل، ایک تو
 مایہ نقصان پھر اس پر دوستوں پڑوسیوں کی ملامت۔
 پیکے پوسفت ہزار خردیلر۔ (صفت) مثل، ایک چیز کے بہت خواہشمند۔
پیکیا تو - (یک) - یا۔ نو [(ق) - صفت] اکا نوے۔ (۹۱)
پیکینی - (یک) - یعنی (ق) [یکایک۔

ی - گ

یگ - (س) - ۱۔ مذا [قربانی۔ یون۔ پوجا۔
یگت - (س) - ۱۔ مذا [یگ - قرن (۲) جوڑا۔ جفت۔
یگتا گنگت - (ی) - گا۔ ن۔ گنت [آر - مرث] قربت۔ اتحاد۔
 اتفاق۔
یگتا گئی - (ی) - گا۔ ن۔ گی [(ق) - مرث] یگتا گت۔ اتفاق۔
یگانہ - (ی) - گا۔ نہ [(ق) - صفت] (۱) گتا۔ قربانی۔ رشتہ دار۔ عزیز۔
 (۲) اکیلا۔ واحد۔ فرد (۳) بے نظیر۔ بے مثل۔ لائانی۔

ی - ل

یل - (ق) - ۱۔ مذا [(۱) بہلوان۔ بہادر۔ شجاع۔ (۲) فریہ۔ موٹا۔
یل - (صفت) لاحقہ فعلیت کے ساتھ بیٹے ازیل۔ (۲) صفت] خربل۔
یل - (۳) صاحب کے معنی میں کرڈیل۔
یل - خوب موٹا نازہ۔

یلدا - (ق) - (۱) [(ق) - مرث] اندھیری اور طویل رات۔
یلغار - (ق) - (۱) [(ق) - مرث] زمین کی فوج پر حملہ۔ تلہ۔ دھاوا۔
یلجمعی - (ق) - (۱) [(ق) - صفت] مذہبیں۔ طباع۔ ہوشیار
یلکہ - (ق) - صفت] (۱) بے قید۔ آزاد۔ کھلا۔ چھوڑا ہوا۔ (۲) [(ق) - مرث] فاحشہ
 بہرین عورت۔
یلیل - (ق) - (۱) [(ق) - مرث] [خفات۔

یک طرفہ (صفت) ایک ہی جانب۔ ایک ہی طرف۔
یک طرفہ ڈگری - (صفت) (۱) مرث] وہ ڈگری جو مدی یا مدعا علیہ میں سے
 ایک کی غیر حاضری میں جاری کی جائے۔
یک طرفہ کرنے - (صفت) (۱) مرث] جانبدار اور راستے نامنصفانہ رہنے
یک طرفہ فیصلہ - (صفت) (۱) مذ [فیصلہ جو ایک فریق کا موقف معلوم کیے
 بغیر یا اس کی عدم موجودگی میں صادر کیا جائے۔
یک فردی - (صفت) (۱) [(ق) - صفت] وہ زمین جو ایک فصل پیدا کرے۔
یک فنی - (صفت) (۱) [(ق) - صفت] بے مثل بے نظیر۔ لاجواب۔ کامل۔ استاد
 فن۔

یک لکھ - (صفت) تابع فعل، بالکل تمام۔ سراسر۔ یک سخت۔ ضرور۔ فوراً
یک لکھ دوکار - (صفت) مثل، ایک لکھ سے دو کام ہو جانا۔
یک کو نہ - (صفت) کسی قدر۔ ایک رنگ کا جھوڑا۔
یک سخت - (صفت) تمام۔ بالکل۔ سراسر۔ فرداً
یک لقمہ بگاھی (صباح) بہتر ہزار مرغ و ماہی (صفت) مثل
 صبح کا خوراک کھانا دوسری سب غذا اول سے بہتر ہے۔
یک لوٹا - (صفت) (۱) [(ق) - صفت] اکوٹا۔ اکیلا۔ فرد۔ واحد اولاد۔
یکم - (صفت) (۱) [(ق) - صفت] بینے کی پہلی تاریخ۔ پہلا۔ نمبر اول۔
یک ماوری - (صفت) ایک ماں کے۔
یک مشیت - (صفت) (۱) [(ق) - صفت] ایک دفعہ۔ ایک ہی بار۔ اکٹھا۔ جملہ۔

یک منزلہ - (صفت) وہ عمارت جس میں ایک ہی منزل ہو۔
یک من علم راہ عقلم باید - (صفت) مثل، ایک حصہ علم کے لیے
 دس حصے عقل کی ضرورت ہے۔
یک نفس - (صفت) (۱) [(ق) - صفت] نہایت مختصر مدت۔ ایک سانس۔
یک نہ نشد دو شد - (صفت) مثل، ایک بنا تو تھی ہی، دوسری اور
 پیچھے بڑی۔ ایک مصیبت کے بعد دوسری مصیبت۔

یگا - (یک) - گا۔ اک۔ کا [آر - ۱۔ مذا [اکیلا۔ واحد۔ (۲) ماش کا
 سب سے بڑا پتہ۔ (۳) [(ق) - صفت] (۱) اکیلا۔ واحد۔ (۲) ماش کا
یگایک - (ی) - گا۔ یک [(ق) - صفت] تابع فعل، ناگمال۔ دفعہ۔ اکبارگی۔

یگاؤ - (ق) [ایک آؤہ۔
یگتا - (یک) - تا [(ق) - صفت] اکیلا۔ نننا۔ بے مثل۔ بے نظیر۔ نرالا۔
 اولہا۔
یگتا کے عصر - (صفت) زمانہ میں بے مثل۔ لاجواب۔ بے نظیر۔
یگتائی - (یک) - تا۔ ای [(ق) - مرث] (۱) وحدت۔ وحدانیت۔
 توحید۔ (۲) اولہا پان۔ نرالا پن۔

یکٹ پن - (ق) - ۱۔ مرث] سہانی۔
یکدھر - (یک) - ڈھر [(ق) - فوراً۔
یک ساترے - (ق) [مدت۔

م۔ م

موسیٰ - (یو۔ ج) (ع۔ ۱۔ ۱) مذ [ایک سانپ جس کی بابت مشورہ ہے کہ ہزار سال کا ہونے پر خوش چاہے اعتبار کر سکتا ہے۔
یوراج - (یو۔ لاج) (ع۔ ۱۔ ۵) مذ [قلی عمد۔ شہزادہ۔
یورپ - (انگ۔ ۱۔ ۱) مذ [براعظم ایشیا کے مغرب میں واقع ایک بڑا عظیم حصہ میں تقریباً ۳۰ ممالک شامل ہیں۔
یورپی - (یور۔ پی) [یورپین (European)] کمورد۔ صفت [۱۵] یورپ سے تعلق رکھنے والا۔ (۲) [مذ] یورپ کا باشندہ۔
یورپین - (European) - (یور۔ پی) - (انگ۔ صفت) [بڑا عظیم و وسیع یورپ کا رہنے والا۔ یورپ سے منسوب۔
یولرس - (یوڈ۔ رٹ) (ت۔ ۱۔ ۱) مسٹ [۱۱] حملہ۔ دھاوا۔ چرٹھائی۔ یلغار۔ (۲) فساد۔ ہنگامہ۔ بلوہ۔
یورینیم - (انگ۔ ۱۔ ۱) مذ [یورینیم نسل کا وہ آدمی جو ایشیا میں پیدا ہوا ہو۔
یوریم - (Uranium) (انگ۔ ۱۔ ۱) مذ [ایک سفید دھاتی عنصر۔
یوز - (ت۔ ۱۔ ۱) مذ [نسل کا عدد۔ (۲) جیتا تیندوا۔
یوز بائشی - ایک تھوپا ہیول کا سردار۔
یوسٹ - (ع۔ ۱۔ ۱) مذ [حضرت یعقوب کے بیٹے جو حسن میں اپنی نظیر نہ رکھتے تھے۔ (۲) نہایت خوبصورت۔ نہایت حسین۔
یوسٹ بے کارواں - (ع۔ ۱۔ ۱) مذ [جس کا کوئی ساختی یا دوست نہ ہو۔
یوسٹ ثانی - حضرت یوسف کی طرح بے حد حسین۔
یوسف جمال - (ت۔ ۱۔ ۱) صفت [خوبصورت۔ یوسف جیسا حسین۔
یوکلیپٹس - (Euclayptus) (یوڈ۔ ک۔ ٹپ۔ ٹس) [انگ۔ ۱۔ ۱] مذ [ایک درخت جس کا عرق دوائیوں میں استعمال ہوتا ہے۔
یوگ - یوگا۔ (س۔ ۱۔ ۱) مذ [مراقبہ۔ مذہبی ورزش۔ ورزش۔
یوگ شکتی - (س۔ صفت) [معجزہ۔ اعجاز۔ کرشمہ۔
یوگوم - (ع۔ ۱۔ ۱) مذ [روز۔ دن۔ تاریخ۔ جمع۔ ایام۔
یوگم حساب - (ع۔ ۱۔ ۱) مذ [قیامت کا دن۔ جب لوگوں کے اعمال کا حساب ہوگا۔
یوگم الدین - (ع۔ ۱۔ ۱) مذ [قیامت کا دن۔
یوگم اللہیت - (ع۔ ۱۔ ۱) مذ [ہفتہ کا دن۔
یوگم العرفہ - (ع۔ ۱۔ ۱) مذ [ذوالحجہ کی نویں تاریخ۔
یوگم العاشورہ - (ع۔ ۱۔ ۱) مذ [محرم کی دسویں تاریخ جس دن حضرت امام حسینؑ شہید ہوئے۔
یوگم الفطر - (ع۔ ۱۔ ۱) مذ [ماہ شوال کی پہلی تاریخ۔ چھوٹی عید کا دن۔
یوگم القیامت - (ع۔ ۱۔ ۱) مذ [قیامت کا دن۔ روزِ محشر۔
یوگم القشور - (ع۔ ۱۔ ۱) مذ [دوبارہ زندہ ہونے کا دن۔ روزِ قیامت۔
یوگم قیوگا - (یو۔ یمن۔ ف۔ یو۔ یمن) [ع۔ تابع فعل] روز بروز آگے دن۔
یوگمیبہ - (یو۔ بی۔ بیہ) [ع۔ ۱۔ ۱) مذ [روزانہ۔ (۲) روز کی مزدوری۔ دن بھر

یوم - (س۔ ۱۔ ۱) مذ [موت کا فرشتہ۔ موراہیل۔
یونگ - (ت۔ ۱۔ ۱) مذ [۱۵] بڑا دریا۔ سمندر۔ (۲) جانب۔ حصہ۔
یونگام - (ی۔ مام) [ع۔ ۱۔ ۱) مذ [جنگلی کبوتر۔
یونان - (یونانی) - (ع۔ صفت) [ملکین کا باشندہ۔ یمن سے منسوب۔
یونوت - (س۔ ۱۔ ۱) مذ [یونگ کا قاصد جو رحوں کو ہم کے پاس لے جاتا ہے۔
یون - (ع۔ ۱۔ ۱) مذ [جزیرہ ملکہ کے جنوب مشرق میں ایک ملک جہاں کائنات حقیق اور چادریں بہت شہور ہیں۔
یون - (ع۔ ۱۔ ۱) مذ [برکت۔ سعادت۔ اقبال مندی۔ کامیابی۔
یونگنی - (ی۔ م۔ نی) [ع۔ صفت] [ملکین سے نسبت رکھنے والا۔ یمن کا رہنے والا۔
یونگین - (ی۔ یمن) [ع۔ ۱۔ ۱) مذ [۱۵] سیدھا ہاتھ۔ دایاں ہاتھ۔ (۲) بائیں طرف۔ (۳) کسر جلف۔ (۴) قوت۔ طاقت۔ توانائی۔
یونگ الدولہ - (ع۔ ۱۔ ۱) مذ [رکن سلطنت۔ ایک معزز خطاب جو امر کو بادشاہوں کی طرف سے لٹا تھا۔
یونگین ویسار - (ع۔ ۱۔ ۱) مذ [دایاں بائیں۔ چپ و راست۔ فوج کا دایاں اور بائیں بازو۔

م۔ ن

ن۔ کن - [جاپانی] ۱۔ ۱) مذ [جاپانی سکے جو تقریباً ڈیڑھ روپیہ کے برابر ہوتے ہیں۔
نیشامیغ - (م۔ نیشامیغ) [ع۔ ۱۔ ۱) مذ [چنے۔ بیج کی بیج۔
نینگ - (Young) [انگ۔ صفت] جوان۔ نو عمر۔ نوخیز۔
نینی - (س۔ ۱۔ ۵) مسٹ [جوان عورت

م۔ و

یو۔ ایرن - او۔ (انگ۔ ۱۔ ۱) مذ [مجلس اقوام متحدہ۔
یو۔ ایٹن - (United Nations Organisation) کا مخفف۔
یو۔ یوتھ - (Youth) [انگ۔ ۱۔ ۱) مذ [نوجوان۔ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ۲۱۔ نوجوانی۔ عنوان شباب۔
یوٹوپیا - (Utopia) [یو۔ یو۔ پ۔ یا] [انگ۔ ۱۔ ۱) مذ [۱۵] مٹائیس رومی مشہور کتاب جس میں ایک ایسے فرضی جزیرے کا ذکر کیا گیا ہے جس میں مثالی حکومت قائم تھی۔ (۲) خیالی حکومت۔ مثالی مقام یا معاشرت۔
یوٹوچنا - (ق۔ ۱۔ ۱) مسٹ [تلاش۔ تعریف۔
یوٹوچنا - (یوڈ۔ یمن۔ نا) [ع۔ ۱۔ ۱) مذ [خدا کا فضل۔ (۲) حضرت

یونین - (Union) (یو۔ این۔ یو۔) (انگ۔ ا۔ مٹ) اتحاد۔ ایک۔
 اتصال (۲) متحدہ چیز۔ (ادارہ۔ ایجن۔ وغیرہ)
یونیورسٹی - (University) (یو۔ نی۔ یو۔ بس۔ ٹی) (انگ۔ ا۔
 مرٹ) جامعہ۔ تعلیم گاہ جس میں طلبہ کے لیے جملہ علوم یا اکثر علوم کی اعلیٰ
 تعلیم یا امتحان یا دونوں کا انتظام ہو۔

ی۔ ۵۔

یہ۔ (۵۔ ا۔ اشارہ) [قرب کا اشارہ۔ اس۔ سامنے کا۔ حاضر۔ قریب (۲)
 رسی۔ اس طرح کی۔
 یہ آپ کے فرمانے کی بات ہے۔ (ایش) کوئی غلط یا ناجائز بات
 کہنے تو بطور تنبیہ کہتے ہیں۔
 یہ آزما کر وہ آزما کر۔ (۱۔ تابع فعل) اچھی طرح جانچ پڑتال کی۔
 یہ اپنا ہی راک الاپتا (گاتا) ہے۔ (ایش) یہ اپنے ہی منہ کی بات
 کہے جاتا ہے۔
 یہ اور بات ہے۔ (۱۔ بول چال) یہ انگ بات ہے۔
 یہ اس سے بیس ہے۔ (۱۔ مثل) یہ اسی سے بڑھ چڑھ کر ہے۔
 یہ اور ہوئی۔ (۱۔ تابع فعل) یہ مزید بات ہوئی۔ اس پر طوق ہے۔
 یہ بات وہ بات ٹکا دھر میرے ہاتھ۔ (۱۔ مثل) اس خود غرض شخص
 کی نسبت بولتے ہیں جو ادھر ادھر کی باتیں کر کے اپنا مطلب نکالتا ہے۔
 یہ بات ہی کیا ہے۔ (ایش) کوئی مشکل کام نہیں یہ معمولی بات ہے۔
 یہ بات سے۔ (۱۔ مثل) یہ خصوصیت ہے۔ بطور کہہ کر تعجب بھی متل ہے۔
 یہ بس کی گانٹھ ہے۔ (ایش) بہت شریار اور بڑا آدمی ہے۔
 یہ پوچھ نہیں اٹھتا۔ (ایش) اس بات کی ذمہ داری نہیں لی جاسکتی۔
 یہ بھی اپنے وقت کے حاکم ہیں۔ (ایش) بہت فیاض ہیں۔ طنز بھی
 کہتے ہیں۔
 یہ بھی کسی نے نہ پوچھا تیرے منہ میں کے دانٹ ہیں۔ (ایش) جہاں
 کسی کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو وہاں کہتے ہیں۔
 یہ بھی کوئی بات ہے۔ (ایش) مثل بات ہے۔ بے موقع بات ہے۔
 یہ بھی میرا وہ بھی میرا۔ (ایش) جو بے اضافی سے ہر چیز پر ہاتھ مارے
 اس کے متعلق کہتے ہیں۔
 یہ بھی نہ ہوا وہ بھی نہ ہوا۔ (ایش) کوئی کام نہ ہوا۔ کہہ بھی نہ ہوا۔
 یہ بیل منڈھے چڑھتی نظر نہیں آتی۔ (ایش) یہ کام پورا ہونا نظر
 نہیں آتا۔
 یہ بڑی نہیں پڑھے۔ (ایش) فقروں میں نہیں آتے۔ یہ کام کرنا نہیں
 چاہتے۔ انکار کرتے ہوئے کہا جاتا ہے۔
 یہ تو جو بھی کہہ گئے ہیں۔ (ایش) یہ تو مانی ہوئی بات ہے۔
 یہ تو کچھ بات نہیں۔ (ایش) یہ غلط ہے۔ درست نہیں۔
 یہ بین کاتے اور یہ پو بارہ۔ (ایش) ایک بڑھتہ ہے۔ ایک

کی اجرت۔
یوں۔ (۵۔ تابع فعل) اس طرح۔ ایسا۔ اس طرح سے۔ اس
 ڈھنگ سے۔
 یوں بھی دیکھاؤں بھی دیکھ۔ (ایش) خوشی دیکھ لی۔ اب غم بھی دیکھ۔
 نیزگی زمانہ۔
یوں بھی سہی۔ (۱۔ محاورہ) اس طرح بھی منظور ہے۔
یوں بھی واہ واؤں بھی واہ واہ۔ (۱۔ مثل) دونوں طرح سے
 خوب ہے۔ ہر طرح خوش۔
یوں تو۔ (۵۔ ا۔ مٹ) اس طرح تو۔ اس ڈھنگ سے تو۔ (۲) ورنہ۔
 وگرنہ۔ (۳) کہنے کو تو۔ دراصل تو۔ برائے نام
یوں توں کرنا۔ (۱۔ محاورہ) بدزبانی کرنا۔ گال گلوچ کرنا۔
یوں ہی۔ یونین۔ (۱۔ تابع فعل)۔ (۱) اسی طرح۔ اسی طریقہ سے۔
 اسی ڈھنگ سے۔ (۲) بلاسوچے سمجھے۔ (۳) بے فائدہ۔ ناحق۔ جلاؤ۔
 (۴) اتفاقاً۔ بلا ارادہ۔ (۵) بھٹا۔ بیکار۔ خالی۔ (۶) آسانی سے چھٹ پٹا۔
یوں ہی ٹرھا دیا۔ (۱۔ مقولہ) خالی غولی ٹال دیا۔ ناکامیاً بے نصرت کیا۔
یوں ہی سا۔ (۱۔ صفت) ذرا سا۔ تھوڑا سا۔ برائے نام۔
یوں ہی سہی۔ (۱۔ بول چال) اس طرح بھی منظور ہے۔ ہم یوں
 بھی خوش ہیں۔
یوں ہی ہے۔ (۱) اسی طرح ہے۔ (۲) قابل اعتبار نہیں ہے۔ (۳)
 فضول ہے۔ بے کار ہے۔
یونانی۔ (۱) صفت (۲) ملک یونان کا رہنے والا۔ (۳) یونان سے منسوب۔
یونٹ۔ (Unit) (یو۔ نٹ) (انگ۔ ا۔ مٹ) (۱) اکائی۔ وحدت۔
 (۲) ایک چیز جو خاص یا مجموعہ واحد اور مکمل بالذات سمجھا جائے۔ یا شمار
 پانپ کے پیمانے کا نام ہے۔
یونٹی۔ (Unity) (یو۔ این۔ ٹی) (انگ۔ ا۔ مٹ) اتحاد۔ اتفاق۔
یونس۔ (یو۔ نس)۔ (۱) راج۔ (۲) ستون۔ رکن۔ (۳) کارکن۔ (۴) ایک
 پیغمبر جو قوم بنی اسرائیل سے تھے۔ روایت ہے کہ ایک مچھلی نے
 انہیں اپنے پیٹ میں چالیس روز تک کرکھیں سلامت اگل دیا تھا۔
 (۳) ایک ستیارہ۔
یونیسکو۔ (U.N.E.S.C.O.) (یو۔ این۔ ایس۔ سی۔ او) (انگ۔ ا۔ مٹ)۔
 اقوام متحدہ کا ادارہ تعلیم و سائنس اور ثقافت۔ (United
 Nations Educational Scientific and Cultural
 Organisation) کا مخفف۔
یونی سیف۔ (U.N.I.C.E.F.) (یو۔ این۔ سی۔ ایف) (انگ۔ ا۔
 مرٹ) اقوام متحدہ کا بچوں کی امداد کا ادارہ۔
 (United Nations International Children's
 Educational Fund) کا مخفف۔
یونیفارم۔ (Uniform) (یو۔ نی۔ فارم) (انگ۔ ا۔ مٹ)۔
 وردی۔

